

تساٹھ ہزار سے زیادہ عربی الفاظ کے معانی و تشریح
مُحاورات و ضرب الامثال اور اہم اشیاء کی تصاویر

المعجم العربی اُردو

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھادر کراچی پاکستان

www.waseemzignai.com

دائرۃ المعارف کراچی

August-2018

اہلسنت وجماعت کا قرآن و سنت کا عظیم ادارہ۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی

جہاں اسلامی اور عصری علوم کا عظیم امتزاج

مختصر تعارف

شعبہ ناظرہ: 200

شعبہ حفظ: 145

شعبہ تجوید: 11

درس نظامی: 105

طلباء

اور انہی شعبہ جات میں سے 400 سے زائد طلباء اسکول کی تعلیم انٹر تک حاصل کر رہے ہیں نیز کم و بیش 100 طلباء مدرسہ میں رہائش پذیر ہیں جن کے طعام و قیام اور میڈیکل کا خرچہ مدرسہ برداشت کرتا ہے۔

شعبہ حفظ و ناظرہ: 14 اساتذہ شعبہ درس نظامی و تجوید: 10 اساتذہ

شعبہ عصری علوم (اسکول): 11 اساتذہ

باورچی: 2 خادم: 4 چوکیدار: 2

مدرسہ
کاسٹاف

کل طلباء کم و بیش 461 اور پورا اسٹاف 43 افراد پر مشتمل ہے۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھادر کراچی پاکستان

DONATION

HABIB BANK LTD. BARNES STREET BRANCH
ACC TITLE: MARKAZ UL ALOOM ISLAMIA (TRUST)
ACC NO: 00500025657003 - branchcode: 0050

f @markazulooloom

▶ waseem ziyai

www.waseemziyai.com

جَدِّ بَاتِقَتُو جَامِع لُغَتَا

اضاف شدہ جدید ایڈیشن



ساتھ ہزار سے زیادہ عربی الفاظ کے معانی و تشریح
محاورات و ضرب الامثال اور اہم اشیاء کی تصاویر

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

۱۹۶۰ء	اول
۱۹۶۵ء	دوم
۱۹۶۹ء	سوم
۱۹۷۴ء	چہارم
۱۹۷۵ء	پنجم
۱۹۷۹ء	ششم
۱۹۸۳ء	ہفتم
۱۹۸۷ء	ہشتم
۱۹۹۰ء	نہم
۱۹۹۲ء	دہم
۱۹۹۴ء	یازدہم

خلیل اشرف عثمانی

باہتمام

ملنے کے پتے

اردو بازار کراچی ۱	دارالاشاعت
دارالعلوم کراچی ۱۲	ادارۃ المعارف
۱۹۰ انارکلی لاہور	ادارہ اسلامیات
دارالعلوم کراچی ۱۲	مکتبہ دارالعلوم
ویب اسٹریٹ لسبیلہ کراچی ۵	ادارۃ القرآن
اردو بازار کراچی ۱	بیت القرآن

ترتیب المنجد اردو

- ۱ عرض ناشر
- ۲ رموز و اشارات یعنی مطلوبہ لغت نکالنے کا طریقہ
- ۳ مقدمہ علمی
- ۴ چند اہم و ضروری قواعد صرفیہ کی شناخت
- ۵ آغاز لغات
- ۶ محاورات و ضرب الامثال
- ۷ عربی کے جدید لغات (ضمیمہ)
- ۸ تصاویر المنجد مع عربی الفاظ

ناشر: دارالاشاعت

مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی۔

مجلس تیرا المنجد اردو

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

مقدمہ
مترجمین

پروفیسر شہید احمد شہد
استاذ جامعہ کراچی

نظر ثانی و تحقیق
تصحیح

- ۱۔ مولانا سعد حسن خاں یوسفی (فاضل ندوۃ العلماء)
- ۲۔ پروفیسر عبدالصمد صادم ازہری (میسرو فاضل دیوبند)
- ۳۔ مولانا سیبہ حسین صاحب (استاذ دارالعلوم دیوبند)
- ۴۔ مولانا نور احمد قاسمی (عربی پروفیسر بہاولپور)
- ۵۔ پروفیسر محبوب الہی صاحب (فاضل دیوبند و دہلی)
- ۶۔ مولانا سبحان محمود صاحب ظاہری (سہارنپور)
- ۷۔ مولانا ظہور احمد صاحب (استاذ دارالعلوم دیوبند)
- ۸۔ مولانا صلح الحسینی صاحب (فاضل دیوبند)
- ۹۔ مولانا ولی حسن صاحب (ٹوٹی) (فاضل ندوۃ لکھنؤ)

ناشر: دارالاسلام

مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی

عرض نامہ

عصر وراز سے احقر کی خواہش تھی کہ عربی زبان و لغت پر چند مفید کتب شائع کروں۔ اور پاکستان بننے کے بعد سے سجدہ اکثر تو نیم یافتہ حضرات میں عربی زبان سیکھنے اور عربی علوم سے استفادہ کرنے کا شوق بڑھا، خصوصاً اس زمانہ میں جب کہ مشرق وسطیٰ کے عربیہ و ممالک اسلامیہ کے درمیان تعلقات روز بروز بہتر ہو رہے ہیں اور ہمارے بہت سے بھائی ممالک عربیہ میں ملازمتوں اور دوسرے شعبوں میں خدمات انجام دینا چاہتے ہیں ان کو بھی ہر قدم پر عربی زبان کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن اردو زبان میں ابھی تک کوئی ایسا جامع لغت نہیں ہو سکا تھا جو پوری طرح معین و مددگار ہو سکتا، داعیہ تو پہلے سے تھا، اب اہل علم کی اس پریشانی کو دیکھ کر عزم کر لیا کہ عربی لغت کی چند مفید اور مستند کتب شائع کی جائیں۔ چنانچہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اپنے دائرہ سے اس سلسلے کی کئی مفید کتب شائع کر چکے ہیں اور زیر نظر کتاب المجلد عربی تو گویا عربی زبان کی انسائیکلو پیڈیا ہے جس میں اختصار کے ساتھ عربی زبان کے تمام الفاظ لے لئے گئے ہیں، اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں اس کی اشاعت ہوتی ہے۔

لیکن اس کے باوجود المجلد کی کمزوریاں مخفی نہ تھیں مثلاً یہ کہ اس کے عیسائی مرتب نے لغت میں بھی عیسائی مذہب کا پرچار ضروری سمجھا اور اس کے ساتھ اسلام اور اسلامی ناموں اور جگہوں سے انتہائی متعصبانہ انداز میں انکار کیا لیکن ارادہ یہ کیا گیا کہ ان نقائص کی اصلاح کے ساتھ اصل کتاب سے فائدہ اٹھایا جائے اس لئے اللہ کے نام پر اس مشکل کام کو شروع کر لیا گیا، اس کے ترجمہ کے لئے چند مستند علماء کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جنہوں نے انتھک جاں افشانی کے ساتھ ترجمہ کے فرائض انجام دیئے اور مذکورہ نقائص کی اصلاح اور بہت سے ضروری اور اہم لغات جو المجلد سے رہ گئے تھے ان کا اضافہ کیا، اب ہماری کوششوں کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے مجھے قوی امید ہے کہ ہماری یہ خدمت عوام و خواص میں پسند کی جائے گی اور اس کتاب زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے میری خواہش تھی کہ المجلد کے شروع میں اصول و تاریخ لغت پر ایک جامع مقدمہ کا اضافہ کیا جائے، اس کے لئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ سے عرض کروں کیوں کہ حضرت موصوف کو اللہ تعالیٰ نے جن علوم ظاہری و باطنی سے مالا مال فرمایا ہے موجودہ دنیا نے اسلام میں اس کی محدود چند سے ہمگے نہیں بڑھتی بلکہ مولانا موصوف کی بے حد مصروف زندگی و تدبیر فتویٰ نویسی اور عوام و خواص کی خدمت کی لگن ان کی زندگی کا عزیز ترین سرمایہ ہے جس کے لئے ان کے دن اور رات کے تمام اوقات وقف ہیں اس مجاہدانہ زندگی کو دیکھ کر ان سے یہ عرض کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، ڈرتے ڈرتے عرض کیا گیا اور میری یہ انتہائی خوش نصیبی ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے انہی مشاغل کے باوجود ایک نہایت جامع مقدمہ تحریر فرمادیا۔

مقدمہ کے متعلق کچھ عرض کرنا چھوٹا مضمون بڑی بات ہے لیکن یہ عرض کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا کہ المجلد کے ترجمہ کا بارگراں اٹھانے اور تین سال کی شبانہ روز کی انتھک محنتوں کا نقد صدمہ نے یہ سبب شل مقدمہ لکھ کر موصول کر لیا۔

اب تک اردو کا دامن لغت ہی سے خالی تھا، اصول لغت اور تاریخ لغت اردو میں آجائے کہ تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، اب اس غلیم کام پر جس قدر بھی شکریں کروں بجا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب مدظلہ کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علوم سے اُمت کو تادیر مستفیض فرمائے، آمین۔

آخر میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے تعاون سے میں یہ علمی کارنامہ منظر عام پر لاسکا کہ اللہ تعالیٰ ترجمہ کرنے والوں نصیب کئے فرائض انجام دینے والوں کا تہوں اور چھاپنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

المجلد اردو کا جدید عکسی ایڈیشن

یہ لغت سب سے پہلے ۱۹۶۹ء میں طبع ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوتے رہے اور خدا کا شکر ہے کہ عوام و خواص میں یہ لغت بے حد مقبول ہوئی، لیکن لغت آپ نے تصحیحات کے ذریعہ چھپتی رہی جس کی وجہ سے طباعت میں اتنی خوبصورتی نہ تھی۔ اب اس کا جدید عکسی ایڈیشن بہت سی اصلاحات و اضافات و درستی غلطیوں کے بعد ظاہری و باطنی ہر لحاظ سے خوب تر ہو گیا ہے، کتاب کی صحت، کتابت، طباعت و کاغذ جلد بندی کے بارے میں اس کے سوا کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ جس نے کتاب کو ہر لحاظ سے اعلیٰ اور نفیس بنانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور اس سلسلے میں جس قدر سرمایہ خرچ کیا جاسکتا تھا اس سے دریغ نہیں کیا مجھے امید ہے کہ میری اس محنت اور عرق ریزی کو آپ پسند فرمائیں گے۔

محمد رفیع عثمانی مالک دارالاشاعت کراچی

۴/ رمضان المبارک ۱۴۳۹ھ مطابق ۲۳ ستمبر ۱۹۶۳ء

رموز و اشارات

المنجد اُردو

باب نصر نصر	سے مراد	ن	سے مراد اسم فاعل	فا
باب فتح فتح	" "	ف	" " اسم مفعول	مفع
باب سمع سمع	" "	س	" " جمع	ج
باب گرم گرم	" "	گ	" " جمع الجمع	ج
باب حسب حسب	" "	ح	" " مصدر	مض
			باب ضرب ضرب	ض

کوئی کلمہ تلاش کرنے کا گڑ

اگر مطلوب کلمہ مجسود ہو تو اس کے حرفِ اول کے باب میں اس کی تلاش کیجئے، اگر مزید ہو تو اس کو مجرور بنائیے یا اگر اس کا پہلا حرف بدلا ہوا ہے تو اس کو اپنی اصل کی طرف لوٹائیے، اور پھر حرفِ اول کے باب میں اس کا سراغ لگائیے۔
 تنبیہ:۔ بعض سہولت و اختصار ہم نے ماضی کو مادہ قرار دے کر اس کے مصدری معنی کئے ہیں اور جہاں جہاں لغات غریبہ میں تشبیہاً فاعل و مفعول و صلات کا ذکر کیا ہے، ہم نے بھی اکثر و بیشتر معنی میں اس کا لحاظ رکھا ہے تاکہ استعمال کلمہ کی پوری پوری وضاحت ہو جائے۔



مقدمہ المنج اردو

از حضرت علامہ مفتی محمد رفیع صاحب دارالعلوم کراچی

أصول اللغة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلا على عبادة الذين اصطفى خصوصاً على سيدنا ورسولنا المجتبیٰ محمد المصطفى و

على آله وصحبه نجوم الهدى ومن بهديهم اقتدى

امّا بعد۔۔۔ برخوردار عزیز محمد رفیعی سلمہ ناظم ادارہ دارالاشاعت کراچی نے عربی لغت کی جدید اور مشہور کتاب المنجد کا اردو ترجمہ اردو خواں حضرات کی سہولت کے لئے اپنے مکتبہ سے شائع کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا ایک معتبر حصہ کتابت بلکہ کچھ حصہ طبع بھی ہو چکا اُس وقت مجھ سے فرمائش کی کہ میں اس پر کوئی مقدمہ لکھ دوں۔ مشاغل کے سبب یہ قضیہ ملتاً رہا۔ آخر ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ میں احقر کو ایک طویل علالت پیش آئی اور برخوردار عزیز مولوی محمد زکی سلمہ ناظم ادارہ اسلامیات لاہور کے اصرار پر کچھ دنوں کے لئے افکار و مشاغل سے کیسویں حاصل کرنے کے لئے لاہور کا سفر ہوا۔ اس وصیت کو اس کام کے لئے غنیمت سمجھ کر سطور ذیل قلمبند کرنے کا ارادہ کر لیا۔ واللہ الامر من قبل ومن بعد۔

المنجد پر مقدمہ لکھنے کے لئے المنجد کی خصوصیات سے تو بحث کرنا ضروری امر تھا ہی کیوں کہ اس کتاب نے جہاں سہولت پسند حضرات کو عربی زبان سے روشناس کرنے میں مدد پہنچائی وہیں ان لوگوں کی راہ میں کچھ اشکالات بھی پیدا کر دیئے جن کا مقصد عربی زبان سیکھنے سے محض موجودہ عربوں سے بات چیت اور مخاطبت و مکاتبت یا کسی سفارت خانہ کی ملازمت ہی نہیں بلکہ اس کو قرآن و سنت کے سمجھنے کا وسیلہ بنانا اُن کا مقصد و اعظم ہے۔ ان حضرات کے لئے چند تنبیہات از بس ضروری ہیں تاکہ وہ کسی مغالطہ کے شرکاء نہ رہیں۔ لیکن ان تنبیہات کا تعلق تو صرف اس کتاب کے ساتھ ہے اصل فن لغت کی کوئی اہم خدمت نہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اصل فن لغت کی حقیقت اور عربی اور شرعی حیثیت اور اس کی مختصر تاریخ پر چند فصلیں لکھ دی جائیں تاکہ یہ مجموعہ اصول لغت کی ایک مفید کتاب بن سکے۔ اس موضوع پر نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم کا رسالہ البلغ فی اصول اللغة عربی زبان میں کافی جامع اور مفید رسالہ ہے۔ زیر نظر کتاب میں بھی زیادہ تر مضامین اسی سے لئے گئے ہیں۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلیف۔

لغت کی تعریف

لغت ان آوازوں کا نام ہے جن سے ہر قوم اپنے اغراض و مقاصد کا دوسروں پر اظہار کرتی ہے۔ ابو الوفاء ہوری نے بھی یہی نقل کیا ہے۔

مختلف لغات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں

انسان اور حیوانات کی آفرینش اور ان میں لگی ہوئی قدرتی مشینری کے کل پُر زور دل پر ایک نظر ڈالی جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس کا رخا نہ قدرت میں کس چیز سے کیا چیزیں بن رہی ہیں۔ عارفِ دومی نے خوب فرمایا ہے

در میان خون و روده فسم و عقل	تُر	جز زرا کرام تو نتوان کرد فصل
اے کہ خاک تیرہ را تو جاں دہی	تُر	عقل و حس را روزی ایماں دہی
شکر از نے میوه از چوب آوری	تُر	و ز منی مرده بت خوب آوری!
گل ز گل صفوت ز دل پیدا کنی	تُر	پیہ را بخششی ضیاء و روشنی

انسان و حیوان کی چلتی پھرتی فیکسٹری میں ایک خود کار (آٹومیٹک) مشین اس کی زبان ہے۔ جو دل و دماغ میں آئے ہوئے خیالات کی ترجمانی اس حیرت انگیز طریق پر کرتی ہے کہ جو مضمون دل و دماغ میں آیا اس کے ادا کرنے کے لئے مناسب حروف و الفاظ کا انتخاب پھر اس کی صحت کے ساتھ دہلی جس میں سین اور شین بلکہ سین اور صا کا التباس نہ رہے اس تیز رفتاری کے ساتھ کر دیتی ہے کہ ایک سیکنڈ کا وقفہ نظر نہیں آتا اور اتنی باتیں انسان اور حیوان سب برابر ہیں۔ اپنے دلی مقصد کو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لئے سب کی زبانوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم جانوروں کی زبان سمجھیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی بندہ کو سمجھادیں تو وہ بھی سمجھنے لگتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارہ میں ارشاد ہے عَلَّمْنَاهُ مِثْقَالَ طَائِرٍ (یعنی ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی)۔

پھر انسان کو حق تعالیٰ نے مدنی بطبع بنایا ہے۔ وہ اپنی ضروریات کو دوسروں کی امداد کے بغیر پوری نہیں کر سکتا اور اس کا دائرہ عمل بھی عام جانوروں کی طرح صرف محسوسات نہیں بلکہ اس کا امتیازی عمل معقولات سے متعلق ہے اس لئے اس کو اپنی زندگی قائم رکھنے اور منصبی فرائض ادا کرنے میں خوب افہام و تفہیم اور مکمل بیان و تبیین کی ضرورت زیادہ ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس کی زبان کو عام جانوروں کی زبان سے ممتاز پیدا فرمایا اور اس کو اظہار مقصد کے لئے لغات کی بڑی مقدار اور بیان کے طریقے سکھائے اور اس کی لغت کو اتنی وسعت عطا فرمائی کہ ایک انسان اپنے مقصد کو مختلف الفاظ اور مختلف عنوانات سے ادا کر سکتا ہے۔ اسی نعمت کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلِمَ الْبَيِّنَاتِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کے طریقے سکھائے۔ اس میں زبان سے قلم سے، اشاروں سے وہ اپنے مقاصد کو مکمل و دقیق علمی مضامین کو کو بھی مختلف عنوانات کے ساتھ دوسروں کو سمجھانے میں تمام حیوانات سے خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے انسانی لغات اور ان کے اختلاف کو اپنی قدرت کا ملکی نشانیوں میں شمار فرمایا ہے، وَمَنْ آيَاتِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ السِّنِّتِ وَالْوَالِدِمْ أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ یعنی ”اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکی بڑی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اور اختلاف تھادی زبانوں اور رنگوں کا اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لئے۔“

زبانوں کے اختلاف میں لغات کا اختلاف بھی داخل ہے کہ ایک عربی بولتا ہے ایک فارسی، ایک ترکی بولتا ہے ایک انگریزی، کوئی ہندی یا ناگری زبان کا عادی ہے کوئی ٹائل یا لاطینی کا۔ پھر ان میں بھی خطوں کے اختلاف سے ہزاروں لغات اور زبانیں مختلف ہیں کہ ایک آدمی جو اپنی زبان کا ماہر ادیب ہے مگر جس زبان کو نہیں جانتا اس کو سمجھنے سے بالکل قاصر اور بے علم نظر آتا ہے۔

اگر انسان کا لبہ لہجہ دوسرے مختلف ہو جائے اس اختلاف لغات میں داخل ہے کہ ایک ہی قسم کی زبان اور مخلوق اور ہنرہوں سے بولنے والے ہی نوع انسان اپنی اپنی بولی اور لب و لہجہ کے اعتبار سے بالکل متنازع ہیں۔ ہر ایک کی آواز الگ پہچانی جاتی ہے۔ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے، ایک ہی طرح کی آب و ہوا اور غذا و ہولیس پرورش پانے والے انسانوں میں زبانوں اور لب و لہجہ کا یہ اختلاف اور امتیاز بلاشبہ قدرتی صنعت کاری کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ اور اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ فقہارِ اکبر اللہ احسن الخالقین۔

تاریخ لغت

اصل لغت کی ایجاد کب اور کس طرح ہوئی اس کو تو عالم کا پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے کیوں کہ کلام اور بیان کا سلسلہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی فرشتوں اور جنات وغیرہ میں جاری تھا۔ لہذا لغت (بلفظ) البتہ انسانی لغت کی تاریخ قرآن کریم نے خود بیان کر دی ہے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی چیز جو جنّت میں سکھائی گئی وہ علم لغت تھا۔ قال تعالیٰ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور مہر مفسرین نے اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام کو عام مخلوقات و موجودات کے نام سکھائے گئے۔ زمین، پہاڑ، دریا، درخت اور مختلف نباتات اور حیوانات اور ان کے استعمال میں آنے والی اشیاء سب کے نام ان کو بتلائے گئے جو فرشتوں کو معلوم نہ تھے اور یہی علم لغت سب سے پہلا امتحان مضمون بنا۔ شیخ السید جلال الدین سیوطیؒ نے مزہ میں فرمایا کہ علم لغت کی فضیلت و اہمیت ثابت کرنے کے لئے اس کی یہی اولیت کافی ہے۔

حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ جن اشیاء کے جو نام حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے دن بتلا دیئے تھے ان کے وہی نام متعین ہیں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان میں تغیر و تبدل کر دے کہ انسان کا نام گھوڑ اور گھوڑے کا نام بیل یا بکری اور درخت کا نام پتھر یا پہاڑ کا نام دریا اور نہر تجویز کر دے (انتہی) اور اس قانون قدرت کو حق تعالیٰ نے کچھ ایسا جبری بنا دیا کہ کسی نے کسی زمانہ میں ایسا اول بدل کیا بھی نہیں۔ آئندہ چل کر جو زبانوں کا اختلاف پیدا ہوا جس کا بیان آگے آتا ہے اس میں شاذ و نادر ہی ایسا ہوا ہے کہ ایک زبان میں جو لفظ کسی خاص چیز کا نام ہے وہی بعینہ کسی دوسری چیز کا نام رکھا گیا ہو۔

واضح لغت یعنی اس کا موجد کون ہے؟

اس مسئلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ امام اشعری اور ان کے متبعین اور ابن فورک، ابن فارس وغیرہ کا قول یہ ہے کہ واضح لغت حق تعالیٰ ہے۔ اسی نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو تمام لغات سکھائے اور پھر اس میں جو اضافے ہوتے رہے وہ بھی بذریعہ وحی و الہام ہوئے آیات قرآن علم آدم الاسماء کلہا اور فی السنکم والوانکم وغیرہ سے ان حضرات کا استدلال رہے۔ ابن جینی نے کہا کہ میں نے عربی لغت میں غور کیا تو اس کے عجائب و غرائب نے مجھے اس اعتقاد پر مجبور کر دیا کہ کسی انسان کی ایجاد نہیں پھر جب روایات حدیث سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی تو مجھے اس میں کوئی شبہ نہ رہا۔ اور ابو ہاشم معمری اور ان کے متبعین کا خیال یہ ہے کہ واضح لغت خود انسان ہے کسی خاص ملک اور خطہ کے لوگ یا ہی میل ملاپ سے ایک زبان بنا لیتے ہیں وہی ان کا لغت ہوتا ہے۔

بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ تمام لغات کی اصل وہ مختلف آوازیں ہیں جو انسان مختلف جانوروں سے یا نباتات اور جمادات کے باہمی کراؤ سے بنتا ہے انھیں آوازوں کے مناسب الفاظ متعلقہ معانی کے لئے وضع کر لئے گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں جن کو نواب صدیقی حسن خاں صاحب نے ”البلغی اصول اللغۃ“ میں جمع کر دیا ہے۔ لیکن مہر علماء محققین اس پر ہیں کہ ان اقوال میں سے کسی ایک پر یقین نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جو دلائل ہر قول کی تائید میں پیش کئے جاتے ہیں ان قطعی کوئی بھی نہیں جس کے مقابل میں کوئی دوسرا احتمال نہ رہے۔ اس لئے صحیح یہ ہے کہ امکان و احتمال دونوں صورتوں کا ہے۔ امام رازی نے حصول میں جمہور کا یہی قول نقل فرمایا ہے۔ اور تاج الدین الرموی نے حاصل میں اور سراج الدین الرموی نے تحصیل میں اسی کو راجع قرار دیا ہے اور علم اصول اور علم لغات کے محققین اور زبانوں کے ماہرین نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

اور ظاہر اس کا یہ ہے کہ ابتداءً وضع لغت حق تعالیٰ نے فرمائی جب کہ آدم علیہ السلام کو یہ لغات سکھائے۔ اس کے بعد اس میں اضافے اور حرفوں کی کمی بیشی اور دوسری قسم کے تغیر و تبدل انسان کی طرف سے ہر زمانہ، ہر ملک اور ہر خطہ میں انسانوں کے مختلف حالات و استعمالات کے تابع ہوتے رہے جیسا کہ واقعات اور تاریخ شاہد ہے۔

سب سے پہلی زبان کونسی ہے؟

عربی زبان سے میں وجہ کی بنا پر محبت کرتی چاہئے۔ ایک یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی ساری کرم عربی ہوں۔ دوسرے فقرات عربی ہے۔ تیسرا فقرات عربی ہے۔

افزادہ روایات سے تمام آسمانی فرشتوں کی زبان کا بھی عربی ہونا معلوم ہوتا ہے نیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ برزخ (قبر) میں بھی فرشتوں کا سوال جواب سب عربی میں ہوگا۔ اور شیخ السنہ جمال الدین سیوطیؒ نے اتفاق میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمانی کتابیں اور صحائف جتنے بھی نازل ہوئے ان کی اصل زبان عربی تھی انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوموں کی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے ان کو بھیجا ہے ان میں سے صرف قرآن الہی کتاب ہے جو اپنی اصلی زبان یعنی عربی میں باقی ہے۔ قرآن کریم نے جہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ دنیا کی ہر قوم کے لئے ہدایت اس کی زبان میں بھیجی گئی ہے وہاں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ہر قوم کا رسول اور پیغمبر اسی قوم کا ہم زبان بھیجا گیا ہے یہیں فرمایا کہ ہر قوم کی کتاب اس کی زبان میں بھیجی گئی۔ ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُنْذِرَ ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے۔

خود قرآن کریم کی آیات اس پر شاہد ہیں کہ بعض آیات قرآنی کھلی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ ارشاد ہے: **إِنَّ هَذَا كَفَىٰ صُحُفًا مُّزِينَةً** وَمُوسَىٰٰ یعنی یہ آیت کھلے صحیفوں میں یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کے صحائف میں بھی موجود ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے **إِنَّمَا كُنْهِ زُبُرَ الْأَوَّلِينَ لِيُذَكِّرَ** قرآن کریم کھلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔

ظاہر اس کا یہی ہے کہ یہ آیاتِ قرآن انھیں الفاظِ قرآنی کے ساتھ کچھ کتابوں میں موجود تھیں اور یہ قریباً اسی کا ہے کہ ان کتابوں کی اصلی زبان بھی عربی ہی

تھی عبرانی وغیرہ زبانوں میں انبیاء علیہم السلام نے ترجمہ کر کے اپنی اپنی قوموں کو پہنچایا۔ اور کعب اجار جو علماء یہودیوں سے تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ ان کا قول تفسیر مجرب میں سورۃ انعام کی آیت ۱۵۱ تا ۱۵۲ کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ یہی آیات ہیں جن سے تورات اس طرح شروع ہوتی ہے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ قل تعالوا انی ما حکم علیکم الا شرکوا بشیئا۔ الی آخر الآیہ“ اس سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بعینہ تورات میں مذکور تھے۔

اور شاید یہی وجہ ہے کہ صرف قرآن نے تمام اقوام عالم کے علماء اور بلغاء و فصحاء کو مخاطب کر کے یہ چیلنج دیا ہے کہ جو شخص اس کے کلام الہی ہونے میں شک کرتا ہے وہ اس کی ایک چھوٹی سی سورت کے مقابلے میں کوئی کلام بنالائے اور سارے عرب کے فصحاء و بلغاء جو اسلام اور قرآن کی مخالفت میں اپنی مال، اولاد، آب و سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، اس چیلنج کے جواب سے بالکل عاجز اور قاصر رہے۔ وجہ یہ تھی کہ قرآن کے صرف معانی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ اس کے نظم الفاظ بھی حق تعالیٰ ہی طرف سے ہے جس کا مثل بنانے پر کوئی مخلوق قادر نہیں ہو سکتی ہے اور قرآن کریم کے نسخ و نسخ اور تمام مجلسا زیوں سے قیامت تک محفوظ رہنے کا بھی یہی راز ہے، اس کے معانی اور الفاظ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو مخلوق کی ہر دسترس سے بالاتر ہیں پچھلی کتابیں تورات و انجیل اور صفت موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام نسخ و تحریف سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اس کی بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے معانی اگرچہ حق تعالیٰ کی طرف سے تھے مگر الفاظ انبیاء علیہم السلام کے تھے۔

ان تمام روایات سے اگر نتیجہ نکالا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس طرح حکومت کی کوئی ایک دفتری زبان اور لغت ہوتی ہے حکومت الہیہ کی دفتری زبان عربی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو وہی سکھائی گئی اور بالآخر جنت میں پہنچ کر تمام انسانوں کی زبان وہی ہو جائے گی۔ بلکہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی بزرگ کا پہلا امتحان داخلہ اسی زبان میں ہوگا۔ آسمانی حکومت کے تمام کارکنان فرشتوں کی بھی یہی زبان ہے۔ آسمانی کتابیں بھی اسی زبان میں نازل ہوئیں۔ عربی زبان کی فضیلت و شرافت کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا کوئی شہادت ہو سکتی ہے۔

عربی زبان کی خصوصیات و فضائل

عربی لغت کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام قرآن اسی زبان میں نازل ہوا۔ امام الانبیاء سید الاولین و الآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ اہل جنت کی بلکہ تمام کارپردازان حکومت الہیہ کی زبان عربی اور جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی زبان بھی اصل عربی ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کی وسعت و سہولت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا انتخاب ہی اس لئے فرمایا ہے کہ وہ کل دنیا کی زبانوں کے مقابلہ میں ہر حیثیت سے بہتر اور افضل ہے اس کا مختصر سا نمونہ ذیل عزائمات میں ملاحظہ فرمائیے۔

عربی زبان کی ابتداء

استاد ابو منصور نے فرمایا کہ اس زبان کی اصل ابتداء تو انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا کر فرمادی تھی اور دوسری زبانیں طوفان نوح کے بعد ان کی اولاد کے دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہونے کے بعد شروع ہوئیں۔ قرآن کریم کا عربی زبان میں ہونا اس کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ عربی زبان سب زبانوں سے مقدم ہے کہ کلام اذلی اس میں نازل ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے جو مینقول ہے کہ عربی زبان سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تاریخ و روایات کی شہادتوں کی بناء پر یہی ہے کہ قریش کی خاص عربی زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس کا چرچہ اور دنیا میں رواج حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا اور نہ اصل عربی زبان تو اول ہی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی جس کو لے کر وہ دنیا میں تشریف لائے اور پھر ان کی اولاد میں باقی رہی۔

”البلغنی اصول اللغة“ میں نواب صدیقی حسن خاں صاحب عبد الملک بن حبیب سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلی زبان جس کو لے کر آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے وہ عربی زبان تھی زمانہ دراز گزرنے پر اس میں تغیر و تبدل پیدا ہو کر سریانی زبان پیدا ہو گئی۔ اور یہ زبان ارض سودہ یعنی جزیرہ کی طرف منسوب

ہے جو طوفانِ نوح سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سریانی زبان عربی زبان سے بہت ملتی جلتی زبان تھی اور بوقت طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں جتنے آدمی سوار تھے ان سب کی یہی زبان تھی۔ صرف ایک آدمی جس کو جبرہم کہا جاتا تھا اس کی زبان ان سے مختلف یعنی خالص عربی زبان تھی۔

کشتی نوح علیہ السلام سے اترنے کے بعد نوح علیہ السلام کے پوتے آدم نے جبرہم کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس لڑکی کی زبان خالص عربی تھی، یہاں سے ان کی نسل میں پھر خالص عربی زبان کا رواج ہو گیا۔ ان کی اولاد میں عوقص اور جابر پیدا ہوئے۔ عوقص کی اولاد میں عاد اور عییل ہوئے اور جابر کی اولاد میں قبیلہ ثمود اور جدلیں اور بھی قبائل عرب کے قدیم قبائل تھے جن کی زبان عربی تھی (البلغہ)

اس سے معلوم ہوا کہ قبیلہ جبرہم جس میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کو پھر بذریعہ الہام عربیہ خالصہ سکھادی۔ اور ان کی نسل میں عربیہ خالصہ کا رواج ہوا جو قریش کی زبان تھی اور جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔

حضرت جابرؓ کی ایک روایت اس کی شاہد ہے۔ انھوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قَدْ اَنَّا عَرَبٌ بِلَاؤُتِ فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ عربیہ خالصہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام حضرت اسمعیل علیہ السلام کو سکھادی تھی، اس روایت کو حاکم نے تہذیب میں نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، نیز یہ یہیقی نے شعب الایمان میں بھی یہ روایت نقل کی ہے۔

ابن وحیہ کہتے ہیں کہ قبائل عرب مختلف اقسام ہیں: ایک عرب عارَب دوسرے عرب متعرب تیسرے مستعرب۔ عرب عارَب خالص عرب ہیں جس کے قبائل میں جو آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ وہ قبائل یہ ہیں: عاد، ثمود، اُمییم، عییل، طسم، جدلیں، عییلی، جبرہم، دبار اور عرب متعرب اور عرب مستعرب دونوں وہ لوگ ہیں جو خالص عرب نہیں۔ دوسری قوموں کے امتزاج سے پیدا ہوئے۔ عرب متعرب قحطان کی اولاد ہیں جن کی اصل زبان سریانی تھی اجیز بن ان کا وطن ہو گیا تھا۔ وہاں بنوا اسمعیل سے انھوں نے عربی زبان سیکھی اور وہی رواج پا گئی۔

اور عرب مستعرب، عرب حجاز میں جو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں جن کو نبی محمد بن عدنان بن اُؤ کہا جاتا ہے چونکہ حضرت اسمعیل علیہ السلام اصل عربی نہ تھے اور نہ ان کی آبائی زبان عربی تھی اس لئے ان کی اولاد کو عرب مستعرب کہا جاتا ہے۔

ابن لسان نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ آدمی جس نے اپنی آبائی زبان کو بھلا کر عربی زبان بولی وہ حضرت اسمعیل علیہ السلام ہیں۔ ابن درید نے جملہ اللغات میں بھی یہی تفصیل اقسام عرب کی نقل فرمائی ہے اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام عرب حضرت اسمعیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ مگر صحیح اور مشہور یہ ہے کہ عرب عارَب حضرت اسمعیل علیہ السلام سے پہلے ہیں جن کے قبائل عاد، ثمود، جدلیں، اُمییم، جبرہم، عییلی وغیرہ ہیں جو حضرت خلیل اللہ حضرت اسمعیل علیہ السلام سے پہلے تھے اور ان کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ البتہ عرب حجاز جن کو عرب مستعرب کہا جاتا ہے، یہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ذریت سے ہیں۔

اسی طرح عرب یمن اور حمیر بھی اولادِ اسمعیل علیہ السلام سے نہیں بلکہ مشہور یہ ہے کہ وہ قحطان کی نسل سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث شیرازی نے القاب میں نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ سب سے پہلے عربیہ خالصہ پر حضرت اسمعیل علیہ السلام کی زبان نکلی، جب کہ ان کی عمر چودہ سال کی تھی۔

ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اور ابوالرحمہ عطر لیل نے اپنے جز میں روایت کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ ہم سے زیادہ فصیح ہیں۔ حالانکہ آپ کی بود و باش ہمیشہ ہمارے ہی اندر رہی۔ کہیں باہر جا کر کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اصل زبان منداں ہو گئی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے آکر وہ اصل زبان مجھے یاد کرادی ہے۔ میں نے یاد کر لیا (البلغہ)

اور دیکھی نے مسند الفردوس میں بروایت ابورافع نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”وہ جس طرح حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم دی تھی مجھے بھی تمام اسماء کی تعلیم دی ہے“

عربی زبان کی وسعت

حضرت امام شافعی جو قرآن و سنت کے بے مثل عالم و فقیہ اور تقریباً آدھی دنیا کے امام و متبوع ہونے کے ساتھ ادب اور لغت کے بھی اہر امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان تمام زبانوں میں وسیع تر زبان ہے۔ اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس زبان کے پورے لغات کا احاطہ سوائے ی کے کوئی نہیں کر سکتا۔

ابن درید نے جہرہ میں اور خلیل نے کتاب العین میں جو کچھ اپنی معلومات اور یادداشت سے لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ عربی زبان کے کل لغات پانچ کروڑ چھ لاکھ اسی سو تیس ہزار چار سو ہیں جن میں پانچ کروڑ چھ لاکھ تیس ہزار مستعمل اور باقی مہمل و متروک ہیں۔

پھر ان میں دو حرفی کلمات کی تعداد سات سو پچاس اور تین حرفی کلمات کی انیس ہزار چھ سو پچاس ہے اور چار حرفی کلمات تین لاکھ تین ہزار چار سو ہیں اور پانچ حرفی کلمات چھ کروڑ تین لاکھ پچھتر ہزار چھ سو ہیں یہ سب تفصیل علامہ زبیدی نے مختصر کتاب الخلیل میں اور شیخ جلال الدین سیوطی نے مزہر میں مزید تشریحات کے ساتھ نقل کی ہیں۔

عربی لغت کی بے مثال وسعت کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک چیز کے بہت سے نام اور بہت سی لغات پائی جاتی ہیں۔ ایک ہی غہم کو سینکڑوں عنوانات اور الفاظ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ علماء لغت نے۔ علماء لغت نے ایسے لغات کو مستقل کتابوں میں بھی جمع کر دیا ہے۔ تیرہ تلوار، نیزہ، شیر، اونٹ، بکری، سانپ، صبح و شام، آفات و مصائب جن کا ذکر عام طور پر کلام میں بار بار آتا ہے ان کے لئے ایک ایک غلط کے اتنے لغت ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔

ابن خالویہ کہتے ہیں کہ میں نے عربی لغت سے شہر کے پانسو نام جمع کئے ہیں اور سانپ کے دوسو اور حمزہ اصہبانی نے مصائب و آفات کے چار سو نام خت عرب سے جمع کر کے فرمایا ان کا شمار اسماء الذوات و اسماء الہی یعنی مصائب کے نام بہت ہونا بھی مصائب ہی ہیں۔ عربی زبان میں اول تو لغات کی اتنی بڑی کثرت جس کا نمونہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ پھر اعراب اور اشتقاق کے بدلنے سے ایک ایک لفظ میں دس دس معنی پیدا ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ مجازات، استعارات، تشبیہ اور کنایات کے ان خاص طریقوں نے جن کو عرب نے اختیار کیا ہے اس بان کو اور بھی زیادہ وسیع اور سہل اور شیریں بنا دیا ہے۔

کلام میں ایجاز و اطناب یعنی طول و اختصار بھی عرب کے کام میں ایک حیرت انگیز صنعت ہے کہ اگر اختصار کرنا چاہیں تو بڑے سے بڑے کلام کو صرف ایک یا دو حرف سے ادا کر دیں اور طول دینا چاہیں تو چھوٹی سے چھوٹی بات کو ایک خطبہ اور مقالہ بنا دیں۔

الفاظ و کلمات کے بجائے ضمیروں سے کام لینا بھی عربی کی خصوصیات میں سے ہے جس میں اختصار کے علاوہ اور بہت سے فوائد ہیں اسی قسم کی خصوصیات میں جن کی وجہ سے قرآن کریم نے عربی زبان کی صفت میں، بلسان عربی مبین فرما کر صفت بیان میں اس زبان کا دوسری زبانوں سے بہتر اور افضل ہونا متعین فرما دیا ہے۔

اور اگر غور کیا جائے تو بیان ہی وہ صفت ہے جس پر کسی زبان کی خوبی و خرابی کو پرکھا جاسکتا ہے کیونکہ لغت و زبان کا مقصد ہی اپنے دل کی بات کا اظہار و بیان ہے تو جو لغت اس اظہار و بیان کے اعتبار سے اکل ہوگا وہی سب لغات میں بہتر و افضل قرار پائے گا۔ عربی زبان کی انہیں بے مثال خصوصیات کی بنا پر بعض حضرات نے فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ قرآن کا ایسا ترجمہ جو قرآن کے پورے پورے مفہم کو ادا کر دے کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں۔ جیسے تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کے ترجمے سریانی اور عبرانی زبانوں سے دوسری زبانوں میں کئے گئے ہیں اور ان کو ان زبانوں کی تورات و انجیل سمجھا گیا ہے۔ قرآن میں اس کا امکان نہیں۔ قرآن کریم کے جتنے ترجمے فارسی، اردو، انگریزی وغیرہ میں کئے گئے وہ محض اہل عجم کی ضرورت کے پیش نظر قرآنی مضامین سے ادنیٰ سی مناسبت پیدا کرنے کے لئے ہیں۔ مت۔ ان کے پورے مضمرات سے آگاہی اور اس کے حقائق و معارف کا علم ان ترجموں سے قطعاً ناممکن ہے۔

اسی وجہ سے علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا صرف ترجمہ تین قرآن سے علیحدہ شائع نہ کیا جائے، کیونکہ لوگ اس کو اردو یا انگریزی کا قرآن کہیں گے۔ حالانکہ اس کو قرآن کہنا کسی حیثیت سے صحیح نہیں۔ اول تو اس لئے کہ الفاظ قرآن حقیقت قرآن کے جزء ہیں۔ قرآن نام ہے الفاظ اور معانی کے مجموعے کا۔ دوسرے اس لئے معانی قرآن بھی کسی دوسری زبان میں پورے پورے منتقل نہیں کئے جاسکتے۔ اس لئے معنی کی حیثیت سے بھی قرآن کے اردو یا فارسی یا انگریزی ترجمہ کو قرآن کہنا صحیح نہیں۔ اسی لئے سلف صالحین نے جب بضرورت عوام قرآن کے ترجمے مقامی زبانوں میں لکھے تو اس کا التزام کیا کہ ترجمہ تین قرآن سے علیحدہ نہ ہو۔

عربی زبان کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی خاص اہمیت رکھتی ہے کہ تکلم اور تلفظ کی آسانی کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے اس کو چند مثالوں سے سمجھئے: جس کلمہ میں دو حرفوں کے اجتماع سے تکلم میں صعوبت یا سختی پیدا ہو سکتی ہے وہاں عرب نے اس کا التزام کیا ہے کہ کہیں ایک حرف کو اس کے مناسب حرف سے بدل دیا۔ کہیں حرف ساکن پر کوئی مناسب حرکت دے دی۔ کہیں کسی حرف کو حذف کر دیا۔ مثلاً لَفْظِ قَوْل کی ماضی قول ہوتی ہے سہولت کے لئے وَاذْكُو الْفَتْ سے بدل کر قَالَ کر دیا۔ اس کا مضارع يَقُولُ ہوتا ہے جو زبان پر ثقیل ہے۔ یہاں واو کی حرکت قاف پر ڈال کر يَقُولُ کر دیا۔ وَعُدَّہ کا اسم ظرف مؤنث ہوتا ہے وَاذْكُو یاء سے بدل کر هِیْضَا کر دیا۔

عام محبی زبانوں میں دو دو تین تین بلکہ اس سے بھی زیادہ ساکن حرف جمع ہوتے ہیں جس کا ادا کرنا زبان پر نہایت مشکل گزرتا ہے اور اسی لئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آخری حرف زبان سے ادا بھی نہیں ہوتے۔ عربی زبان میں اس کی خاص رعایت رکھی گئی ہے کہ جہاں دو حرف ساکن کے اجتماع سے ثقل پیدا ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ قلب و ابدال کا عمل کر کے آسان کر دیا گیا ہے۔

عربی زبان کی تدوین و تصنیف

یہ بات بھی شاید عربی زبان ہی کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے حرف حرف اور کلمہ کلمہ کو بحث و تنقید کی اتنی پھلنیوں میں پھانا گیا ہے کہ اس کی نظیر دوسری زبانوں میں ملنا مشکل ہے۔ لغت کی کتابیں شمار کی جائیں تو ہزاروں کی تعداد ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تیس تیس جلدوں کی کتابیں مختلف ترتیب اور مختلف انداز سے لکھی گئی۔ خاص خاص الفاظ پر مستقل کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔

اس فن کی سب سے پہلی تصنیف خلیل بن احمد نحوی کی ہے جو کتاب العین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد ابن درید نے جہرۃ اللغۃ تصنیف کی۔ اصمعی نے لغت کی ایک خاص قسم اجناس پر کتاب لکھی۔ ابو زید انصاری نے نوادر پر اور ابو عبیدہ نے کتاب النوادر واللغات تصنیف کی۔ ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے غریب اللغۃ پر کتاب تصنیف فرمائی۔ ابو علی فارسی نے تذکرہ اور ازہری نے تہذیب ابن فارس نے معجم فارابی نے دیوان الادب صاحب ابن عباد نے محیط، قرآن نے جامع، پھر مختلف طبقات اور مختلف اوقات میں اس موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ صاحب بن عباد کا یہ واقعہ منقول ہے کہ ان کو کسی بادشاہ نے اپنے یہاں طلب کیا تو انھوں نے یہ جواب دیا کہ میں یہاں سے کہیں منتقل ہوں تو مجھے ساٹھ اونٹ فی لغت کی کتابیں منتقل کرنے کے لئے چاہئیں۔ یہ شخص جانتا ہے کہ اونٹ کتنا غلیم الشان وزن اٹھالیتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا جاسکتا ہے کہ ایک صاحب بن عباد کے پاس کتنی کتابیں لغت کی موجود ہوں گی۔

مگر فتنہ تاتاریں جب بغداد کے اسلامی کتب خانے و ریاضے و جلیبے ڈال کر اور کہیں جلا کر تباہ کئے گئے۔ ان میں سے اکثر کتابیں ضائع ہو گئیں۔ اس مقدمہ کے آخر میں کتب لغات کی ایک مختصر فہرست بطور نمونہ کے شامل کر دی گئی ہے وہ دیکھ لی جائے۔ متاخرین جن کی کتابیں لغت عرب میں متداول اور مشہور ہوئیں وہ جوہری کی صحاح اور ابن سیدہ اندلسی کی کتاب المحکم والمجیط اور شیخ مجد الدین فیروز آبادی کی قاموس ہے اور اس آخری دور میں عام طور سے قاموس کو زیادہ شہرت و قبول حاصل ہوا۔ بہت سے علماء نے اسے درسا پڑھا اور پڑھایا ہے۔ سید مرتضیٰ زبیدی ہندی نے اس پر ایک نہایت عمدہ مبسوط شرح تاج العروس دس ضخیم جلدوں میں لکھی۔

عرب کے فصحاء و بلغاء

فصاحت و بلاغت اور شعر و سخن تمام دنیا کی زبانوں میں ایک فن کی حیثیت رکھتا ہے جو سیکھنے سکھانے سے کافی محنت اور مشق کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ لیکن عرب کے لئے یہ ایک فطری ذوق کی حیثیت رکھتا ہے جیسے بطن کے بچے پیرا کھائے بغیر تیرتے ہیں۔ عرب کے بچے بڑے اور عورت، سب شعر و سخن کی عمدہ قابلیت کے مالک ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر بھی درجات اور مراتب کا طیفہ تفاوت ہوتا ہے۔ جاہلیت کے عرب شعراء اور فصحاء میں امر القیس کو ملک الشعراء کہا جاتا ہے اور بھی بہت سے نام معروف و مشہور ہیں۔ یہاں ان کی تاریخ لکھنا نہیں۔ اسلامی دور میں اس پر اتفاق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں سب کے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کام آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام رسالت و نبیغہ پر فائز فرمایا اور آپ کے مخاطب اول عرب کے فصحاء و بلغاء تھے تو ضروری تھا کہ آپ کو فصاحت و بلاغت کا وہ معیار عطا فرمایا جائے جس کے سامنے سب کو جھکا پڑے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا افضل العرب یعنی میں تمام عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔

صحیح مسلم کی روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان اپنی چند خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو جو امح الکلم عطا فرمائے گئے کہ مختصر لفظوں میں بڑے بڑے مضامین کے دریا بھر دیتے تھے۔

اسمعیل بن ابی عبیدہ کہتے ہیں کہ عرب کی تاریخ اور ان کے کلام و اشعار لغات کے ماہرین کا اس پر اتفاق ہے کہ قریش تمام عرب میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں۔ ان کا لغت سارے لغات عرب پر فائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عرب میں انتخاب فرمایا ہے۔ پھر ان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ قریش کو اپنے حرم محترم کا خادم اور نگہبان بنا کر تمام عرب کو ان کا خادم اور شاگرد بنادیا۔ تمام عرب کے قافلے حج کے لئے مکہ آتے تو اپنے اپنے اختلافات کا فیصلہ بھی قریش سرداروں کے سامنے پیش کرتے اور ان کے حکم پر سب راضی ہو جاتے تھے۔

قریش کے سوا دوسرے قبائل کی زبانوں میں خاص خاص قسم کی کمزوریاں مشہور تھیں جن پر مقابلہ کے وقت ایک دوسرے کو عار دلائی جاتی تھی لیکن قریش کی زبان ان سب کمزوریوں سے پاک تھی۔ اسی لئے قرآن کو کتابی صورت میں جمع کرنے کے وقت حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ قرآن کے لکھنے کا کام صرف قریش اور بنو ثقیف کے نوجوان انجام دیں۔ پھر عثمان غنیؓ نے جب ممالک اسلامیہ کے لئے قرآن مجید کے متعدد نسخے لکھوائے تو حکم دیا کہ املا کرنے والا آدمی قبیلہ ہزلی کا اور لکھنے والا بنو ثقیف کا ہونا چاہیے کیوں کہ ہزلی کا لفظ اور ثقیف کا خط سب سے زیادہ قابل اعتماد تھا۔

ابونصر فارابی کہتے ہیں کہ قریش اس خاص صلاحیت میں سب سے ممتاز تھے کہ تمام قبائل عرب کے لغات میں جو سب سے زیادہ فصیح اور سہل سلف میں بہتر بیان معنی میں واضح لفظ ہوتا اس کا انتخاب کر لیتے تھے اور وہی ان کی زبان کا لغت سمجھا جاتا تھا اور وہ لوگ جن سے عربی لغت لیا گیا اور ان کے کلام کو عربی زبان کے لئے صحیح و غلط کا معیار سمجھا گیا وہ بنو قریظہ قبائل ہیں۔ قیس، تیم، اسد، ہزلی اور بعض کنانہ اور بعض قبیلہ طے کے ان کے سوا دوسرے قبائل جو سرحدی علاقوں پر رہتے تھے اور ان کی زبانیں دوسری زبانوں سے متاثر تھیں جیسے بحرین کے رہنے والوں کی زبان فارسی زبان سے متاثر تھی اور یمن و عمان کے باشندے کہ ان کی زبان حبشی زبان کے کچھ اثرات لئے ہوئے تھی۔ ان کی لغات سے لغت عرب میں کوئی چیز نہیں لی گئی بھی وجہ یہ ہے کہ قبائل لخم و جزام کی لغت اس لئے نہیں لی گئی کہ وہ مکر اور قبط سے ملتے جلتے تھے۔ اس طرح قضاہ اور عساکر کی زبان پر اس لئے اعتماد نہیں کیا گیا کہ وہ اہل شام سے ملے ہوئے تھے اور ان میں اکثر انصاری تھے جو عربی زبان لکھتے پڑھتے تھے۔ اور تغلب اور یمن والوں کی زبان اس لئے متروک قرار دی گئی کہ وہ جویرہ بن یزید کے پڑوسی تھے اور بنی یسر کی لغت فارسی اور ہندی کے قریب ہونے کے سبب، اور اہل یمن کی زبان ہندوستان اور حبشہ کے اتصال کے سبب قابل اعتماد نہیں مانی گئی۔

اسی طرح شہر کے باشندوں کی زبان اور لغت کا بھی اس لئے اعتماد نہیں کیا گیا کہ شہروں میں اطراف و اکناف سے مختلف زبانوں کے لوگوں کی آمد و رفت کے باعث شہریوں کی زبان کچھڑی ہو جاتی ہے خالص نہیں رہتی۔ عرب کے تمام شہروں میں سے صرف بصرہ اور کوفہ ایسے دو شہر ہیں جن میں زبان کی بڑی خدمت کی گئی اور دوسری زبانوں کے اختلاط سے بچایا گیا۔ اسی لئے ان دونوں شہروں کے لغت کا اعتبار کیا گیا اور دونوں میں عربی لغت کے بڑے بڑے

ماہرین پیدا ہوئے (البلغة مختصراً) عربی زبان میں دوسری زبانوں کے الفاظ

مذکورہ صدر بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عربی لغت کے ماہرین نے اس زبان کی لغت جمع کرنے میں اس کی بڑی احتیاط کی ہے کہ دوسری زبانوں سے اس کا اختلاط نہ ہو جائے۔ اسی لئے علماء لغت میں سے ایک جماعت اس کی قابل ہو گئی کہ عربی زبان میں کسی دوسری زبان کا کوئی لفظ نہیں لیا گیا اور جو مثالیں ایسی ہیں کہ ان میں بظاہر دوسری زبانوں کے الفاظ عربی ہیں لئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ان کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ محض توارد اور توافقی ہے کہ ایک معنی کے لئے ایک لفظ عربی زبان میں لیا گیا ہے وہ ہی لفظ کسی دوسری زبان میں آگیا۔

لیکن اکثر علماء اہل تحقیق اس پر ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کچھ الفاظ عربی زبان میں ضرور دوسری زبانوں سے لئے گئے ہیں جن کو معرب اور ذیل کہتے ہیں اور دلیل یہ ہے کہ کسی کلمہ کے غیر منصرف ہونے کے لئے علماء عربیت نے ایک علتِ عجز کو قرار دیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ لفظ کسی عجمی زبان سے منتقل کر کے عربی میں لایا گیا ہے اور قرآن مجید میں بھی ایسے غیر منصرف الفاظ بکثرت موجود ہیں خصوصاً اشیاء اور افراد کے نام جیسے ابراہیم اسمعیل وغیرہ۔

اور ابو نعیمہ نے اس معاملہ میں ایک معتدل فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ بات تو ناقابل انکار ہے کہ بہت سے الفاظ عربی لغت میں رومی، فارسی، عبرانی، وغیرہ زبانوں کے لئے گئے ہیں، لیکن یہ الفاظ عربی زبان میں ایسے معروف و مشہور ہو گئے کہ خود عربی زبان کے الفاظ سمجھے جانے لگے۔ اس لئے کسی کا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ عربی زبان میں کوئی غیر عربی لفظ نہیں لیا گیا کیوں کہ جو لئے گئے وہ خود عربی بن گئے یا بنا لئے گئے اور دوسروں کا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ غیر زبانوں کے الفاظ عربی زبان میں آئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اصل میں وہ الفاظ غیر عربی تھے اگرچہ بعد میں وہ بھی عربی بن گئے اور جب وہ الفاظ عربی زبان کی حیثیت میں آ گئے تو قرآن بھی انہیں الفاظ میں نازل ہوا خلیل بن احمد کی کتاب العین اور ابن درید کی جملہ میں ایسے الفاظ کو معرب یا ذیل کہا گیا ہے مثلاً: ط، الیم، طور، ربانیون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ سریانی زبان کے الفاظ ہیں اور صراط، قسطاس، فردوس، رومی زبان کے اور مشکوٰۃ، کفیلین حبشی زبان کے اور ہسیت لک جو رانی زبان کے الفاظ ہیں اور ابراہیم، اسمعیل، یعقوب وغیرہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں اور طوبیٰ ہندی زبان کا لفظ ہے اور سی تحقیق معتدل اور صاف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عربی لغت میں دوسری زبانوں کے الفاظ اس طرح تو شامل نہیں ہوئے جیسے دوسری زبانوں میں مختلف زبانوں کے الفاظ عادتاً شامل ہوا کرتے ہیں لیکن اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ گئے چنے چند الفاظ ایسے ضرور ہیں جو دوسری زبانوں سے لئے گئے ہیں ان میں صرف وہی الفاظ عربی لغت کے جزو سمجھے گئے ہیں جو قدیم عربی زبان میں نزولِ قرآن کے وقت معروف ہو چکے تھے۔ بعد میں مختلف زبانوں کے اختلاط سے جو الفاظ عربوں میں رواج پا گئے ان کو ماہرین لغت نے عربی لغت کا جزو نہ بنا با اتفاق جائز نہیں سمجھا۔ ایسے الفاظ ان حضرات کی اصطلاح میں مصنوع یا مولد کہلاتے ہیں جو اہل لغت کے نزدیک عربی لغت کا جزو نہیں سمجھے جاتے جن کا بیان عنقریب آئے گا۔

عربی لغات و معاجم کی مختصر فہرست بترتیب حروف تہجی

نام مصنف	نام کتاب	تاریخ و فن	نام مصنف	نام کتاب	تاریخ و فن
ابو الیاس اللغز	ابن طیب عبد الواحد بن علی اللغز	۳۵۱ھ	ارشاد فی اللغة	محمد بن عبد ربہ قرطبی	۳۳۳ھ
ابنۃ الاسماء والافعال	شیخ ابی القاسم علی جعفر بن القطاع السعوی	۵۵۳ھ	اریب فی تفسیر العشریب	امام ابی الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی	
تحف الادیب فی القرآن والقرآن	شیخ ابی حیان محمد بن یوسف اندلسی	۵۵۳ھ	الانزیر الواضح	مصطفیٰ بن عثمان الرومی	
الاتساق فی تعلد وجہ الاشتقاق	شیخ تلقی الدین علی بن عبد الکاظم السبکی	۵۵۳ھ	استدراک الغلط	ابن کبر الزبیری	
اختری	مصطفیٰ بن شمس الدین قرظہ الحصار	۵۵۳ھ	اسماء الاسد	ابن خالوید والوسمل وغیرہ	۳۳۳ھ
	الشہیر باختری				

نام کتاب	نام مصنف	تاریخ و قاف	نام کتاب	نام مصنف	تاریخ و قاف
اسماء الجرد والعصير	محمد بن الحسن بن رمضان النحوی	۸۵۳ھ	ترجمان المترجم مبتدی الارب	فاضل شهاب الدین احمد بن محمد بن عرب شاه	۸۵۳ھ
اسماء الخیل	ابن عبیدہ معمر بن المنثی البصری	۲۰۴ھ	تقریب الارب فی غریب القام	شیخ امام محب الدین احمد بن عبد اللہ الطبری	۶۰۲ھ
اسماء الذئب	رضی الدین حسین بن محمد بن ابی	۵۰ھ	بن سلام		
اسماء السیف	شیخ ابی سهل محمد بن علی المروزی	۲۳۳ھ	تلخیص فی اللغة	ابو بلال حسن بن عبد اللہ العسکری	۳۹۵ھ
اسماء الزکاح	مجد الدین ابی طاهر محمد بن یعقوب	۲۲۲ھ	تلیق العین فی اللغة	ابو غالب تمام بن غالب بن عمر القرطبی اللغوی	۲۲۲ھ
	فیروز آبادی	۹۱۴ھ	تنبیه الباریین علی المنحوت	ظہیر الدین علی بن حطیر النعمانی	۵۹۸ھ
اسماء فی الاسماء	سعید بن احمد بن محمد المیرانی	۵۳۹ھ	من کلام العرب		
اشارہ فی غریب القرآن	ابو بکر محمد بن الحسن	۳۵۱ھ	تنبیه البصائر فی اسماء	ابو الخطاب العلامة عمر بن حسین بن علی بن دجیہ	۶۳۳ھ
اصول اللغة	شیخ عبد الواحد بن علی بن برہان	۶۲۳ھ	ام الکبائر	اکوفی	۵۸۲ھ
	اللغوی	۸۱۹ھ	الافصح عما وقع فی	عبد اللہ بن بری العباسی	
اعانة الانسان علی	قاضی عز الدین محمد بن ابی بکر		کتاب الصحاح		
احکام اللسان			تہذیب الاسماء واللغات	امام محی الدین سکی بن اشرف النودی	۶۰۸ھ
الافصح فی اسماء الزکاح	جلال الدین سید طحطاح		تہذیب التہذیب	ابو القشیر محمود بن ابی بکر بن حامد التنوخی	۶۲۳ھ
امثلة غریب اللغة	علی بن حسن النہائی المعروف بکراخ التل		تہذیب اللغة	ابو منصور محمد بن احمد بن طلحہ بن مزج الازہری	۶۴۰ھ
انموذج فی اللغة	ابو علی الحسن بن رشیق القیروانی	۵۶۶ھ	جامع اللغة	سید محمد بن السید بن بن السید علی صاحب الراموز	۶۲۶ھ
انوار الغیب فی اسماء اللغات	مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی	۸۱۴ھ	الجمع بین الصحاح والجوہر فی	ابو اسحق ابراہیم بن قاسم البطلیدی	
البارع فی اللغة	شیخ ابوطالب مفضل بن سلمہ بن عاصم اللغوی		غریب المصنف فی اللغة		
البرہان لطاف فی لغت	محمد حسین التبریزی الحیدر آبادی		الجمع بین الصحاح	تاج الدین ابو محمد احمد بن عبد القادر المعروف	
الفرس			الحکم واللغة	بابن مکثر	۶۲۹ھ
البغیة فی اللغة	ابو جعفر احمد بن یوسف الفہری السبلی		الجمہور فی اللغة	ابو بکر محمد بن الحسن بن ورید اللغوی البصری	۳۲۱ھ
البلغة فی ترجم النور اللغوی	ابوطاہر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی	۸۱۴ھ	الجوہر مختصر کتاب العین	صاحب بن عباد	۳۸۵ھ
البلغة فی اللغة	ابو یوسف یعقوب بن احمد الاویسی النیسابوری	۴۶۲ھ	جوہر اللغة	ابو القاسم محمد بن عمر الزمخشری	۵۲۴ھ
تاج العروس من	سید ابوالانصاف محمد بن قسطنطین الحسینی الواسطی		حدائق الاداب فی اللغة	عبید اللہ بن محمد المعروف بابن شاہ مدان	
جوہر القاموس	المصری ہندی	۲۰۵ھ	حسن السیر فیما فی الفرس	جلال الدین سید طحطاح	
تاج المصادر فی اللغة	ابو جعفر احمد بن علی المعروف بجعفر کالمقرئ البیہقی	۵۲۲ھ	من اسماء الطیر		
تاج اللغات	محمد اسمعیل الکندی		خلق الانسان	ابن قتیبة عبد اللہ بن مسلم النحوی	۲۴۶ھ
تحفة الارب فیما فی الفرس	شیخ ابو حیان محمد بن یوسف الاندلسی		خلق الانسان	ابو الحسین احمد بن فارس اللغوی	۲۹۵ھ
من الغریب	النحوی	۶۳۵ھ	خلق الانسان	ابو سعید عبد الملک بن قریب الاصمعی	
التحفة السنية الی الحرة	محمد بن مصطفی بن لطف اللہ الاشیشی		الدرہ المصیة فی	زین الدین عبد الرحمن بن ابی بکر العینی	۸۹۳ھ
الحسینیة فی لغة الفرس			اللغة التركیة		

تاریخ و کتاب	نام مصنف	نام کتاب	تاریخ و کتاب	نام مصنف	نام کتاب
۳۹۵ھ	ابن فارس ابو الحسين احمد القزويني	فقه اللغة	۳۹۹ھ	بدیع الزمان حسين بن ابراهيم	دستور اللغة
	شيخ عبد القادر دين احمد البيني	فلك القاموس	۳۵۰ھ	اسحق بن ابراهيم القارابي	ديوان الادب
	شيخ مصيب الله قنوجي	قابوس في ترجمه القاموس	۳۲۵ھ	شيخ عبد الله بن عبد الرحمن الدونشري	رسالة الغنق المغرب الواقع في القاموس
۳۸۵ھ	ميرزا اسد الله غالب دهلوي	قاطح برهان		شيخ محمد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب	الروض المستوفى ما لا يسأل الى الا لوف
	امام محمد الدين محمد بن يعقوب	القاموس المحيط والقابوس الوسيط	۸۱۴ھ	الفيروز آبادي	
۸۱۴ھ	الفيروز آبادي	الجامع لما ذهب من كلام العرب في طيبت	۶۲۴ھ	علاء الدين علي بن المراد الكاشي	زبدة اللغة (فارسي)
۳۹۹ھ	سلمان عبد الله المحضرواني	قانون في اللغة	۹۱۱ھ	جلال الدين سيوطي	سدة العرف
۳۳۳ھ	حسن بن احمد اللغوي الهذلي	القصيدة الممثلة في اللغة		ابو محمد عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي	نهر الفصاحة في اللغة
	شيخ سعد الله مفتي رام پور	القول المانوس في صفات القاموس		حسين بن المذهب المصري	سبب في حصر لغات العرب
	محمد بن ولي بن رضى الدين	كاتبية	۶۵۰ھ	امام رضى الدين حسن بن محمد الصنعاني	شواهد في اللغة
۳۸۵ھ	ابو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمرزبانخي	كامل في اللغة	۱۲۲۰ھ	مسٹر جوزف برتوجو نير نصرائي	شمس اللغات
۳۶۸ھ	رواية الى سعيد الحسن بن عبد الله السيراني	كتاب ساجيال تهامة ومكانها		ابن فارس ابو الحسين احمد بن فارس الرازي	الاصح في اللغة
۳۸۵ھ	ابو القاسم صاحب اسمعيل بن عباد الوزير	كتاب ساد الله تعالى وصفاته	۳۹۵ھ	اللغوي	
۵۳۸ھ	ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري	كتاب لائمة والجبال والمياه	۳۹۳ھ	امام ابو نصر اسمعيل بن حامد الجوري القارابي	صباح في اللغة
	شيخ جمال الدين ابو الفضل محمد بن كرم	لسان العرب في اللغة		ابو فضل محمد بن عمر بن خالد القرشي	صراح اللغة
۴۱۲ھ	الانصاري الخزرجي			مصطفى خاں بن رشون خاں كهنوي	صفوة المصادر
	شيخ جمال الدين سيوطي	لمعة الاشراف في الاشتقاق		جلال الدين سيوطي	صنوع الصباح في لغات التكاثر
۴۲۱ھ	ابو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الاسكفاني	مبادئ اللغة	۳۴۹ھ	ابو بكر محمد بن حسن الزبيدي الانصلي	طبقات اللغويين والخطاة
۶۶۲ھ	جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك النخعي	مثلث	۳۸۲ھ	احمد بن ابان الاندلسي اللغوي	العالم واللغة
۹۸۶ھ	شيخ محمد طاهر الصديقي القفطي	مجمع البحار	۶۵۰ھ	امام حسن بن محمد بن حسن بن حيدر العري	اللبا الذخيرة واللبا الفاخر
۶۵۰ھ	امام حسن بن محمد الصنعاني	مجمع البحرين		شمس الدين بن محمد السيدي	عمدة في لغة الفرس
۳۹۵ھ	ابو الحسين احمد بن فارس القزويني	مجل اللغة	۵۳۹ھ	سيد بن احمد الميمني النيسابوري	غرائب اللغة
	ابو الحسين علي بن اسمعيل الامير المعروف	المحكم والمحيط الاعظم		شيخ امام محمد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب	الغز المثلثة والدرر المثبتة
۳۵۸ھ	بابن سيرة		۳۱۴ھ	الفيروز آبادي	
۹۱۱ھ	جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر السيوطي	المزهر في اللغة	۵۳۹ھ	ابن احمد الميمني في سعيد	غريب اللغة
۹۱۱ھ	يحيى بن ابى بكر القنوي	مصادر	۹۹۸ھ	مصطفى بن محمد المعروف بخز زاده	غلطات العوام
	احمد بن ابان بن سيد اللغوي	المعلم		شيخ محمد غياث الدين بن جلال الدين	غياث اللغات
۶۱۰ھ	امام ابو الفتح ناصر بن عبد الله المطري	مغرب		بن شرف الدين رامپوري	
۵۳۸ھ	علامه جبار الله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري	مقدمة الادب		علامه جبار الله ابو القاسم محمود بن عمر	الفائق في غريب الحديث
	شيخ فاضل عبد الرحيم بن عبد الكريم	منتقى الارباب	۵۳۸ھ	الزمخشري	

نام کتاب	نام مصنف	تاریخ و قات	نام کتاب	نام مصنف	تاریخ و قات
مذہب فیما وقع فی القرآن من العرب الناموس	جلال الدین سیوطی رح	۹۱۱ھ	المعروف بابن الاثیر الجزری محمد قاسم بن حاج محمد کاشانی ابو سعید محمد بن ابی سعید محمد بن ابراہیم حسان بن نصوح	وجیز ہدایت فی اللغۃ ہدیۃ فی اللغۃ ینابیح اللغۃ یواقیت	۶۰۲ھ
نصاب الصبیان نظام الغرب نظام المسد فی السمارا	علی بن محمد بن ابی بکر حسین بن جعفر الادیب عیسیٰ بن ابراہیم الربعی جلال الدین سیوطی شیخ امام ابو السعادات مبارک بن ابی الکرم محمد		ابو جعفر احمد بن علی المعروف بجعفرک ابو عمر محمد بن عبد الواحد الزہر المعطرز		۵۴۴ھ ۳۲۵ھ

عربی زبان کی بے نظیر حفاظت

اور

اس کے لئے محدثانہ اصول کا استعمال

دنیا کی عام زبانیں زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ ایک صدی کے بعد اس پہلی صدی کی زبان متروک ہو جاتی ہے۔ روزمرہ کے لغات اور ان کے تلفظ میں فرق ہوتا جاتا ہے۔ کچھ دوسری زبانوں کے اختلاط سے ابھی یا بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اس زمانہ کی وہی زبان فصیح سمجھی جاتی ہے جو اس وقت بولی جا رہی ہے۔ فارسی قدیم کا مولد نہ فارسی جدید سے کیجئے۔ یا اردو قدیم کا اردو جدید سے تو ایسا نظر آئے گا کہ یہ زبان ہی دوسری ہے۔ اسی طرح عام بول چال کی عربی جو آج کل مجاز اور دوسرے عرب ممالک میں بولی جاتی ہے وہ قدیم قرآنی عربی سے اتنی مختلف ہے کہ ان دونوں کو ایک زبان کہنا مشکل نظر آتا ہے۔ اگر عربی زبان سے مسلمانوں کا تعلق صرف اتنا ہی ہوتا کہ وہ ایک مسلم برادری کی زبان ہے تو آج دوسری قدیم زبانوں کی طرح قدیم عربی بھی متروک درجہ نام و نشان ہو جاتی۔

لیکن مسلمان عربی زبان کا صرف اس لئے دلدادہ نہیں کہ اس کو اس زبان میں اپنے عربی بھائیوں سے بول چال اور مراسلت کا تعلق رکھنا ہے بلکہ اس کے لئے عربی زبان سے دل بستگی اور اس کے احترام و تقدس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا متن عربی میں ہے اس لئے اسلام کی اساس و بنیاد عربی زبان پر قائم ہے اور اسی وجہ سے تمام علمائے امت کا اتفاق ہے کہ عربی زبان کی حفاظت اور اس کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہمیشہ قائم رکھنا اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے۔

جو مری نے صحاح کے شروع میں لکھا ہے کہ ”عربی ہی وہ لغت ہے جس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا اور وہی دنیا کے علم کو اس کے ساتھ وابستہ فرمادیا“ اور شیخ السہ نامہ سیوطی نے مزہر میں فرمایا کہ ”اس میں کوئی شک نہیں کہ لغت عربی کا سیکھنا اور معلوم کرنا دین کی ضروریات میں داخل اور ایک فرض کفایہ ہے“ حضرت فاروق اعظمؓ نے درس قرآن دینے والوں پر یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ عربی لغت سے پورا واقف ہو اور مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ ”جب تمہیں قرآن کے کسی لفظ میں اشکال پیش آئے تو اشعار عرب میں اس لفظ کو تلاش کرو کیوں کہ عربی زبان کی تفسیر اور اس کے معانی کی تعیین کے لئے اشعار عرب ہی معیار ہیں“

اور بعض اہل علم نے دو شعروں میں عربی زبان کی ضرورت و فضیلت کو اس طرح بیان فرمایا ہے

حفظ اللغات علیہا فرض کفرض الصلوٰۃ ۛ فلیس یضبط دین ۛ الا بحفظ اللغات

یعنی لغات عربی کا یاد کرنا نماز کی طرح ایک فرض ہے کیوں کہ کسی دین کو بغیر حفظ لغات کے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا اور امام ثعلب نے اپنی امالی میں فرمایا

کہ فقہ کو عربی لغت کے علم کی شدید ضرورت ہے۔

ان روایات سے عربی زبان کی حفاظت اور اس کو سیکھنے اور یاد رکھنے کا فرض کفایہ ہونا تو معلوم ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ عربی جس کی حفاظت اسلامی فرض ہے وہ وہی قدیم عربی ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنن ہم تک پہنچی نئی عربی میں کوئی کتنی ہی مہارت حاصل کر لے وہ اس فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ جاہلیت عرب کی زبان کو محفوظ رکھے کیوں کہ اسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور اسی کے ذریعہ قرآن کے معانی صحیح معلوم ہو سکتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ عربی لغت کے جمع کرنے والے مصنفین نے اس کی رعایت رکھی ہے کہ دوسری زبانوں کے اختلاط سے اصل قرآنی زبان مخلوط ہو کر اشتباہ میں نہ پڑ جائے۔ ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ لغت عربی کی تصنیف و تدوین کرنے والوں نے عرب کے صرف ایسے قبائل کے لغت کو بنیاد و اعمود بنایا ہے جن کا اختلاط دوسری زبان والوں سے نہ تھا۔ کوثر، بصرہ کے علاوہ کسی شہر کی زبان کو اسی لئے سند نہیں مانا کہ ان شہروں میں عربی زبانوں کا اختلاط پایا جاتا تھا۔ اور جزیرۃ العرب کے سرحدی قبائل جن کا اختلاط ہندی یا فارسی یا حبشی درومی زبانوں سے تھا۔ ان کی زبان کا بھی لغت عربی میں اعتبار نہیں کیا صرف ان عرب عرب کی زبان سے عربی لغت کو مدون کیا ہے جو نسل اور زبان کے اعتبار سے خالص عرب تھے۔ اور ان میں بھی زیادہ تر قریشی قبائل ہیں۔

پھر جن قبائل کی لغت کو کتابوں میں مدون کیا وہ بھی ویسے ہی سنی سنائی باتوں کی طرح جمع نہیں کر دیا بلکہ علماء اسلام نے جو اصول روایت حدیث کو غیر معتبر اور ضعیف روایات سے پاک رکھنے کے لئے حدیث رسول میں استعمال فرمائے۔ تقریباً انہیں اصولوں سے لغت عرب کے جمع کرنے میں کام لیا۔

نقل لغت میں نقل حدیث کے اصول کا استعمال !

جس طرح روایات حدیث سند نقل کے اعتبار سے چند اقسام متواتر، مشہور، خبر واحد پر مشتمل ہیں، پھر خبر واحد میں سند متصل کا اعتبار کیا گیا منقطع کو نہیں لیا گیا۔ اور ناقابل اعتبار راویوں کو ساقط کیا گیا ہے اسی طرح لغت عرب کے جمع کرنے میں علمائے لغت نے بھی یہی اہم اعتبار فرمایا ہے۔

متواتر

امام لغت ابن الانباری نے اپنی کتاب لمع الادب میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث فرمائی ہے اور اسی کتاب میں فرمایا کہ ”جو لغت قرآن میں یا حدیث کی روایات متواتر ہیں آئے ہیں وہ متواتر اور قطعی ہیں۔ یعنی جن معانی کے لئے قرآن و حدیث میں مستعمل ہوئے ان کے وہی معنی یقینی ہیں۔ زبان یا زمان کے بدلنے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا“

امام رازی نے محمول میں فرمایا کہ ”لغت اور قواعد نحو صرف کا وہ حصہ جو نزول قرآن اور عہد رسالت کے زمانہ سے معروف ہے اور جو اتنا نقل کیا گیا ہے وہ قطعی ہے۔ مثلاً لفظ سماء آسمان کے لئے اور ارض زمین کے لئے اور مار پانی کے لئے، تار، آگ کے لئے قرآن و سنت میں استعمال کئے گئے ہیں اور قائل کو ہمیشہ مرفوع اور مفعول کو منصوب اور مضاف الیہ کو مجرور پر ٹھاکا گیا ہے۔ عربی زبان کے لئے قطعی ہیں۔ اگر کسی اور زمانہ کے عرب، بول چال بلکہ تحریر و تقریر میں بھی اس کے خلاف کوئی صورت اختیار کر لیں تو اسلامی عربی میں اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

ابو الطیب لغوی نے کتاب مراتب النحویں بیان کیا ہے کہ جو الفاظ عرب جاہلیت سے لے کر آج تک برابر استعمال ہوتے رہے خواہ قرآن میں آئے ہوں یا نہیں وہ متواتر اور اپنے معانی میں قطعی ہیں اور جو احاد و افراد کی روایت سے منقول ہیں ان میں رجال حدیث کی طرح تنقید کر کے ثقہ و غیر ثقہ سے پہچان کر جھوٹے سے امتیاز کے طریقے استعمال کئے جائیں گے۔

منقطع

ابن الانباری نے اپنی کتاب لمع الادب میں بیان کیا کہ جس طرح حدیث میں سند منقطع کا اعتبار نہیں اسی طرح لغت کی روایت میں بھی منقطع مردود ہے۔

خطیب بغدادی نے ابن عبدالحکم سے نقل کیا ہے کہ ”عربی ادب کے ماہرین علماء کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے اور اشعار عرب اُن سے پڑھتے تھے حضرت امام کو قبیلہ ہزہل کے دس ہزار اشعار بر زبان یاد تھے جن کو نقل کر کے ان کے اعراب اور لغات اور معانی کی تشریح فرمایا کرتے تھے“

جس طرح روایات حدیث میں ناقابل اعتبار روایات کو علماء حدیث نے موضوع کہہ کر الگ کر دیا ہے اور مستقل کتابوں میں ایسی روایات کو جمع کر کے ان پر تنقیدی بحث فرمائی ہے۔ اسی طرح اہل لغت نے اس قسم کے بے اصل الفاظ کو مصنوع کے نام سے موسوم کر کے لغت عرب سے الگ کر دیا۔ محمد بن سلام نے اپنی کتاب "طبقات الشعراء" کے شروع میں لکھا ہے کہ اشعار عرب میں کچھ ایسے اشعار بھی لوگوں نے شامل کر دیئے ہیں جو مصنوع اور موضوع ہیں۔ ان سے کسی کے لئے استدلال جائز نہیں۔

اسی طرح ایک قسم لغات کی مولد کہلاتی ہے۔ وہ بھی لغت عرب میں معتبر اور قابل اُستدلال نہیں۔ علامہ زبیدی نے فرمایا کہ مولدہ لغت میں جو اصل عربی زبان میں نہیں۔ پھر غلط عوام کے طور پر عربی میں رائج ہو گئے۔ اور فرق مصنوع اور مولد میں یہ ہے کہ مصنوع تو وہ الفاظ ہیں جن کو دھوکہ اور تلبیس کے لئے یہ کہہ کر کہ عربی لغت میں داخل کر دیا گیا ہے کہ یہ فصیح اور اصل عربی زبان کے لغات ہیں۔ اور الفاظ مولدہ میں یہ بات نہیں بلکہ تغیر زمان و لسان کے عام حرولت کے تحت کچھ لفظ عوام بلکہ خواص میں زبان زد ہوجاتے ہیں جو اصل لغت اور اس کے قواعد کی رُو سے غلط ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے۔ وادوسری زبانوں میں تو ایسے الفاظ کے لئے یہ اصول بنایا گیا ہے کہ غلط العواہر فصیحہ یعنی جو غلط لفظ سب اہل زبان میں عام ہوجائے وہ فصیح سمجھا جائے گا۔ لیکن عربی لغت کے علماء اس پر متفق ہیں کہ لغات مولدہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ فارابی نے لغات مولدہ کو عربی سے علاحدہ کرنے کے لئے کہا ہے ہذا ہا عربیہ و ہذا ہا ولہ ہا پھر مولدہ لغات کی چند مثالیں بیان کی ہیں۔

جیسے لفظ حسان چھوٹی کمان کے لئے اور تحریر لکھنے کے معنی ہیں اور ایام معجز خاص سردی کے دنوں کے لئے اور فاقرہ شراب پینے کے ایک خاص بڑن کے لئے اور فجر معنی فاحشہ طرز، مبغی طعن، اسی طرح مجاہست اور تجنیس، امح الح، کایوس، مانش، عقص کے الفاظ قواعد کے مطابق ان معنی میں نہیں آتے جن میں

اُن کے بعد کے لوگوں نے استعمال کیا۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کو فطرہ کہنا بھی اصل لغت کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اسی طرح لفظ تشویش کی عربی میں کوئی اصل نہیں۔ لغت طیفی بھی اسی طرح ہے۔ غبی اور بے وقوف آدمی کو زبون کہنا بھی اسی قسم میں داخل ہے۔ تکلمین و فلاسفہ کے کلام میں محسوسات اور ذاتی اور ذاتیات کے الفاظ بھی اسی قسم میں داخل ہیں۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم نے ایسے الفاظ کو ایک مستقل رسالہ میں جمع فرمایا ہے جس کا نام ہے ”لف الضمات فی تصحیح بعض ما استعملتہ العامة من الاعلاط“۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ معرب یا ذخیل جن الفاظ کو کہا جاتا ہے وہ بھی اگرچہ اصل زبان کے الفاظ نہ تھے مگر زمانہ قدیم میں نزولِ قرآن سے پہلے ہی وہ الفاظ عربی لغت میں معروف و مشہور ہو کر شل زبان عربی کے ہو گئے تھے وہ باتفاق اہل لغت عربی کا جزو سمجھے گئے ہیں۔

خلاصہ کلام

یہ ہے کہ عربی زبان میں غیر عربی الفاظ کے داخلہ کی تین قسمیں ہیں۔ معرب یا ذخیل، مصنوع، مژدہ پہلی قسم زمانہ جاہلیت اور زمانہ نزولِ قرآن کے وقت سے عربی لغت کا جزو اور فصیح قرار دی گئی ہے۔ اس کو تو اب غیر عربی کہنا بھی مجاز ہی ہے۔ باقی دونوں قسمیں عربی لغت کا جزو ہیں نہ ان کا کہیں اعتبار ہے۔ نہ ان سے کسی شے میں احتجاج یا استدلال کرنا جائز ہے۔

آداب اللغوی

ادبِ تفصیل بیان ہو چکی ہے اس میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ لغت عرب کی تدوین و تصنیف میں اس فن کے علماء نے مؤثرانہ انداز کی احتیاط کو ضروری قرار دیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان صرف زبان کی حیثیت سے مطلوب نہیں جس کے ادب بدلنے کا اہل لسان کو ہر وقت ہمیشہ اختیار ہوتا ہے۔ بلکہ مسلمانوں کے لئے عربی زبان کی تعلیم کا فرض ہونا اور اس کی پوری حفاظت کرنا اس لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کی زبان ہے۔ اس کے جانے بغیر قرآن و سنت کے احکام کو پوری طرح نہیں جانا جاسکتا اور یہ مقصد ظاہر ہے کہ اسی زبان سے متعلق ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور جو بعد رسالت میں بولی اور صحیح سمجھی جاتی ہے۔

اس لئے عربی لغت میں اشتغال صرف ایک زبان کا اشتغال نہیں بلکہ ایک دینی فریضہ کی ادائیگی اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لئے علماء لغت نے لغوی عالم کے لئے بھی اسی طرح کچھ آداب شرائط لکھے ہیں جس طرح مفسر، محدث، فقیہ اور مفتی کے لئے آداب مقرر ہیں۔

اس بارہ میں علماء لغت نے فرمایا کہ لغوی پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو صریح کر کے اخلاص پیدا کرے یعنی فن لغت کے اشتغال سے اس کی نیت قرآن فہمی اور کتاب سنت کی تشریح کی ہونا چاہئے۔ فصیح نیت کے بعد اس کا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ فن لغت حاصل کرنے کے لئے ثقہ اور دیانت دار علماء لغت کو تلاش کرے اور لغات سے سند متصل کے ساتھ جو لغات حاصل ہوں صرف انہیں پر اعتماد کرے۔ ہر طب و یا پس کو جمع نہ کرے۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم۔ یہ شگ یہ علم دین ہے تو تم غور کرو کہ اپنا دین کن لوگوں سے حاصل کرنا چاہئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ قرآن کا درس صرف وہی شخص دے جو لغت عرب کا عالم ہو۔ فارابی نے کہا کہ قرآن کے علم اور اس کے معانی کے فہم کے لئے اس کے سوا اور کوئی راہ نہیں کہ آدمی لغت عربی میں تبحر حاصل کرے۔

اور لغوی کے لئے لازم ہے کہ اشتراکِ عرب کو یاد کرے اور ان کے معانی اور محتاج کو سمجھے کیوں کہ اسی کے ذریعہ فہم قرآن پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح لغوی پر لازم ہے کہ جو لوگ اس سے علم لغت حاصل کرنا چاہیں اُن کے ساتھ لطف و مہربانی کا معاملہ کرے اور جب کوئی شخص ان آداب کو جمع کرے تو لغویین کے نزدیک وہ حافظہ کلمائے کا مستحق ہے جیسے حدیث کے یاد کرنے والے یا مکرر حافظ کہا جاتا ہے۔

هَذَا الْخُرُومُ الدَّانِيَرَادُكَ وَهَهُمَا مِنْ أَصُولِ اللُّغَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا قَلَّ اللَّهُ الْحَمْدُ أَوَّلَهُ وَآخِرُهُ وَبَاطِنُهُ وَظَاهِرُهُ

”المبجد کی خصوصیات“ اور اس پر تبصہ

علماء اسلام نے ہر قرن اور ہر زمانہ میں عربی لغت پر مختلف انداز میں جو کتابیں تصنیف فرمائی ہیں ان کا ایک ہلکا سا خاکہ اسی مقدمہ میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ان میں عظیم و ضخیم بڑی کتابیں بھی ہیں جیسے لسان العرب، تاج العروس وغیرہ اور متوسط بھی جیسے صحاح، جوہری اور قاموس وغیرہ اور مختصر بھی جیسے مختار الصحاح وغیرہ۔ ان میں ترتیب کے بھی مختلف انداز ہیں۔ لغت کی سب سے پہلی کتاب جنہیں احمد بن حنبل کی تصنیف ہے اس کی ترتیب بیسی ترتیب لفظ کی رعایت کر کے ان حروف کو مقدم کیا ہے جو حلق سے نکلتے ہیں۔ پھر ان حروف کو جو زبان اور نالوس سے نکلتے ہیں۔ پھر ان حروف کو جو نالوس سے نکلتے ہیں۔ پھر حروف حلق میں حروف عین کو اس لئے مقدم کیا ہے کہ وہ حلق کے بالکل آخری حصہ سے نکلتا ہے اور اسی بناء پر کتاب کا نام کتاب العین رکھا ہے۔

فطری اور طبعی حیثیت سے یہ ترتیب بہت مناسب تھی۔ لیکن عوام کے لئے کچھ دشواریاں بھی تھیں اس لئے بعد کے مصنفین نے حروف تہجی کی ترتیب پر لیا ہیں لکھیں، پھر ان میں بھی بعض نے آخری حروف کا اعتبار کر کے ابواب کی ترتیب قائم کی اور ابتدائی حروف کو ان کی فصیلیں ٹھہرایا۔ قاموس کا یہی طرز ہے اور بعض نے ابتدائی حروف کو اصل ابواب قرار دے کر آخری حروف کو فصل بنایا۔ المبجد نے بھی یہی طرز اختیار کیا ہے۔

عوام کے لئے سہولت کی رعایت ہر زمانہ کے مصنفین نے اپنے عہد کی ضرورت کے مطابق کی ہے۔ یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ سہولت پسندی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ المبجد کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اس نے موجودہ طبائع کی رعایت کے پیش نظر لغت عربی کو ایسے انداز پر ترتیب دیا ہے جس سے استخراج لغت کافی آسان ہو گیا۔ ساتھ ہی اختصار عبارت کے لئے علامات ایسی مقرر کر دیں جن سے حروف کی حرکات الفاظ میں بیان کئے بغیر آسانی سے واضح ہو جاتی ہیں اسی طرح جمع وغیرہ کے لئے رموز مقرر کر کے اختصار پیدا کیا گیا ہے۔ رموز کے ذریعہ اختصار عبارت کا انتہام متقدمین کی کتابوں میں بھی کافی موجود ہے مگر اس میں کچھ سہولت زیادہ ہے۔ دوسری امتیازی چیز المبجد میں یہ ہے کہ اس میں درختوں اور جانوروں کی تصویریں دے کر لفظ کا مفہوم متعین کر دیا گیا ہے اور المبجد کو مقبول عوام بنانے میں اس کا بڑا دخل ہے۔

استخراج لغت کی تسہیل اور ہر چیز کے مفہوم کو واضح کرنے کا جو کام المبجد نے کیا ہے وہ اپنی جگہ بے شک قابل تحسین ہے اور جو لوگ عربی زبان کو صرف اس حیثیت سے جانتا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے جغرافیہ میں آئے ہوئے ایک خطہ زمین پر بولی جاتی ہے اور عربی زبان سیکھنے کا مقصد ان کے سامنے صرف یہ ہے کہ اس زبان کے ذریعہ عرب ممالک کے باشندوں سے مخاطبت اور مکاتبت ہو سکے۔ ان کے لئے بالشر المبجد عربی زبان سکھانے میں مددگار ثابت ہو گا اور ان مقصد المبجد کے ذریعہ پورا ہو سکے گا۔

لیکن مسلمانوں میں عربی زبان سیکھنے سکھانے والوں کی اور عربی ادب کی خدمت پر عریضہ کرنے والوں کی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو کبھی عربی اس مخاطبت و مکاتبت کی نوبت نہیں آتی یا آتی ہے تو ایک ثانوی مقصد کی حیثیت سے آتی ہے۔

وہ عربی زبان کو ایک مقدس اسلامی اور قرآنی زبان کی حیثیت سے دینی فریضہ سمجھ کر سیکھتے ہیں۔ اور ان کا مقصد تمام لغت کی کتابوں اور جاہلیت عرب کے دوادین کے پڑھنے پڑھانے سے قرآن و سنت کا سمجھنا سمجھانا اور قرآن میں مہارت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ان کے لئے افسوس ہے کہ المبجد صحیح معنی میں مبجد یعنی مددگار نہیں بلکہ ان کی راہ میں کچھ مشکلات پیدا کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔

وجہ یہ ہے کہ اس مقصد کے لئے عربی لغت جمع کرنے میں نزول قرآن کے زمانہ کی عربی زبان کو پوری احتیاط کے ساتھ جمع کرنا اور قرآن کی تخیل و تلمیذ سے محفوظ رکھنا اور جدید اور منحدت الفاظ و محاورات سے اجتناب کرنا اس ضروری ہے۔ اسی لئے سابق مصنفین لغت اور علماء لغت نے لغت عربی اور ادب عربی کے لئے ان عمدانہ اصول سے کام لیا ہے جن کا ذکر اسی مقدمہ میں آپ تفصیل سے دیکھ چکے ہیں اور یہ معلوم کر چکے ہیں کہ علماء لغت نے الفاظ مصنوعہ یا مولدہ جن کو

خیل بھی کہا جاتا ہے ان کو عربی لغت میں شمار کرنا جائز نہیں سمجھا۔ اور اسی لئے عرب کے ان قبائل کی لغت کا اعتبار نہیں کیا جو دوسری زبان والوں کے قریب رہتے تھے یا جن کی زبانیں دوسری زبانوں سے متاثر تھیں۔ یہاں تک کہ کوڈ اور بقرہ کے سوا کسی شہر کی زبان کو لغت میں حجت نہیں قرار دیا۔ کیونکہ شہروں میں مختلف زبان کے لوگوں کی بجز آمد و رفت کے سبب شہریوں کی زبان دوسری زبانوں سے مخلوط ہوجاتی ہے۔

المبجد کا مصنف ایک غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کیوں ضروری سمجھتا۔ اس کے سامنے تو عرب ممالک کے بسنے والے موجودہ انسانوں کی زبان ہے۔ اس کو مسلمانوں کی کتاب و سنت سے کیا سروکار تھا۔ جدید لغات، جدید معانی و احوال کو اس نے کھل کر عربی لغت کا ایسا جزو بنا دیا ہے کہ یہ امتیاز کرنا دشوار ہو گیا کہ کونسا لفظ اصل عربی کا لفظ ہے اور کونسا مصنیع یا مولد ہے جس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ مصنف المبجد سے اس طرز اختیار کرنا ہمیں کوئی شکوہ بھی نہیں لیکن قابل شکایت اور حیرت انگیز وہ نقیب ہے جو مصنف نے اس کتاب میں برتا ہے کہ لغت کے ترجمہ اور مفہوم میں عیسائی عقائد کو زبردستی ٹھونسے۔ دیکھئے رخ ذ کے مادہ میں لفظ عذراء کے معنی لوئیس معلوف صاحب لکھتے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں :-

لقب السیدۃ مریم والدۃ اللہ المتجسد یعنی عذراء القرب ہے حضرت مریم کا جو والدہ ہیں جسمانی خدا کی۔

ہم لوئیس معلوف مصنف المبجد سے یہ نہیں کہتے کہ خدا کو متجسد یعنی جسمانی کہنا ایک نہایت نامعقول بات ہے کیوں کہ جسم اور جسمانیت حادث اور فانی ہونے کی علامت ہے جو حادث اور فانی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ یہ تو ان کا اپنا عقیدہ ہے اس کے غلط صحیح یا حق و باطل ہونے کی ذمہ داری خود ان پر ہے آخر دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے پتھر کی مورتیوں اور پیل کے پتوں اور دریاؤں کے پانی کو یا آگ ہو یا کو خدا کہہ دیا ہے۔

لیکن ان سے یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ لغت کے ترجمہ میں اپنے اس بے بنیاد عقیدہ کو داخل کرنے کا آپ کو کیا حق حاصل تھا۔ پھر تماشہ ہے کہ وہ لفظ عذراء کا ترجمہ بھی نہیں صرف حضرت مریم کا لقب ہونے کی ادنیٰ مناسبت سے ان کے صاحبزادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے عیسائی عقیدہ کو جو ولادت بنا کر عیسائی مشن کا حق ادا کر دیا ہے۔

اور اس سے زیادہ واضح الفاظ میں عیسائی مشن کا حق مادہ م س میں لفظ مسیح کے تحت اس طرح ادا کیا ہے خود المبجد کے الفاظ دیکھئے۔

المسیح المسحوق بالدهن ج مسحاء و مسحی لقب یعنی مسیح اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر تیل ملا جائے اس کی جج مسحاء اور مسحی آتی

الزبت یسوع ابن اللہ المتجسد۔ ہے نیز لفظ مسیح لقب ہے رب یسوع کا جو اللہ کے بیٹے جسمانی ہیں۔

صل ال کے مادہ میں صلیب کا لفظ آیا تو آپ لکھتے ہیں :-

العود المکرم الذی صلب علیہ اسم المسیح

یعنی صلیب وہ مقدس لکڑی ہے جس پر حضرت مسیح کو سولی دی گئی اس معمر کو تو کوئی عیسائی ہی حل کرے کہ ان کے عقیدہ کے موافق جو لکڑیاں حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کرنے اور توہین و اہذا کے لئے ان کے دشمنوں نے استعمال کی وہ مقدس کیسے ہو گئی۔ اگر ان کا خیال صحیح ہے تو ان لکڑیوں کو تو اتنا ہی منحوس کہنا چاہیے ہم یہاں اسلام و عیسائیت کے عقائد کی تحقیق نہیں کر رہے اس لئے ہیں اس سے بحث نہیں کہ وہ ان لکڑیوں کو کیوں مقدس سمجھیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا لفظ صلیب کے لغوی معنی میں تقدس داخل ہے یا لفظ صلیب کے مفہوم میں یہ عیسائی نظریہ شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا۔

ایک طرف تو بیان لغت کے پردہ میں ادنیٰ ادنیٰ اسی مناسبت و تھوڑے عیسائی عقائد کا پرچار ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف اسی تعصب اور تنگ نظری کا یہ مظاہرہ ہے کہ مادہ ح میں لفظ احمد اور محمد کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ بھی ذکر نہیں کرتے کہ یہ لفظ دنیا میں کسی ہستی کا نام بھی ہے۔

مزدلف، مٹی، بیڑب وغیرہ ایسے معروف و مشہور مقامات کے نام ہیں کہ کوئی لغت لکھنے والا ان سے اغراض نہیں کر سکتا، مگر المبجد نے ان مقامات کا ذکر کرنے سے مکمل اجتناب کیا۔ اسی طرح اسلامی مشاہیر اور مشہور مقامات میں سے شاذ و نادر ہی کسی کا ذکر کیا ہے۔ المبجد کے تازہ ایڈیشن میں جو ایک نیا ضمیمہ اعلام اور مقامات کا اضافہ کسی دوسرے مصنف کی طرف سے کیا گیا ہے اس میں تو مجبوری تھی کہ اسلامی دنیا کو عالمی جغرافیہ سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں یہ اعلام لائے گئے ہیں مگر ان کے متعلق جو احوال لکھے گئے ہیں وہ بالکل غیر مستند اور بعض جگہ تو غلط چیزوں پر مشتمل ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھئے اس ضمیمہ میں لفظ حرا کے بیان میں لکھا ہے۔

جبل فی جزیرۃ العرب شمالی شرقی مکہ فیدہ غار اختفی یعنی جزیرۃ العرب کا ایک پہاڑ مکہ کے شمال شرقی میں واقع ہے جہاں

فیه النبی فی عودۃ من الطائف حتی استطاع دخول
ملکہ بعد الحجۃ۔ ایک نار ہے جس میں طائف سے لوٹنے کے وقت نبی جاکر چھپے تھے یہاں
تک کہ پھر ہجرت کے بعد مکہ میں داخل ہو سکے۔

تاریخ کا ایک ادنیٰ طالب علم بھی ایسی لغو غلطی نہیں کر سکتا اور جس کو تاریخ عالم کا آئینہ نہ ہو اس کو تاریخ جغرافیہ یا لغت لکھنے پر قلم اٹھانے کی جرأت نہیں
کرنا چاہئے۔ غار حراء تو اس غار کا نام ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت بہتوں مہینوں مقام کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور پھر مکہ میں آجاتے
تھے۔ اس وقت سارا مکہ آپ کو امین کے لقب سے پکارتا تھا۔ کوئی ایک آدمی بھی مخالف نہ تھا جس سے چھپنے کی نوبت آتی۔ اس کے مصنف کو غار ثور کا
دھوکا ہے جس میں آپ ہجرت کے وقت چھپے تھے۔ مگر طائف سے لوٹنے کا اس میں دخل نہ تھا۔ سرسری طور پر ایک مثال سامنے آگئی۔ اس سے مصنف کے علم
و اطلاع کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

یہ بہت ہی مختصر سا نقشہ المنجد کی متعصبات ذہنیت کا ہے جس کو محض سرسری نظر سے لکھا گیا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو اس پر متبہ کرنا ہے کہ
عربی زبان ان کے لئے صرف ایک زبان نہیں بلکہ دین بھی ہے اس کے حاصل کرنے میں ظاہر کہ ایسے متعصب عیسائی کے بیان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا جو لغت کے
ترجمہ میں بھی بڑی بروہی اپنے عقائد کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے اور اسلامی معلومات سے آئینہ خبر ہے کہ تاریخ کے ایک نہایت مشہور واقعہ میں بھی وہ فاضل غلطیاں کرتا ہے
سہولت اور جدت پسندی آج کل عام لوگوں کا ذہن مبتلا جاتا ہے اور وہ فی نفسہ کوئی مذموم چیز بھی نہیں بشرطیکہ اصل حقیقت کو اس سہولت اور جدت
کی بھینٹ نہ چڑھا دیا جائے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور چمک دمک پر اصل حقیقت کو قربان نہ کر دیا جائے۔ وہ مسلمان جن کا مقصد اصل عربی زبان سیکھنے اور
پڑھنے سے قرآن کا سمجھنا اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم کرنا ہے ان کے سامنے اگر جانوروں کی یا انسان کی تصویر دے کر لغت کا مفہوم
سمجھانے کو آسان کر دیا گیا تو کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ محض اس آسانی کے فائدہ کے لئے خود قرآن و حدیث اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی پرواہ
نہ کرے۔ احادیث متواترہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے اور استعمال کرنے کو حرام و ناجائز قرار دیا ہے کیا کوئی عقل مند اس کو
صحیح قرار دے سکتا ہے کہ محض اس سہولت پسندی کے لئے آخرت کا عذاب خرید لیا جائے اگر صرف سطحی فوائد ہی پر نظر کی جائے تو جتنے جرائم اور عورات شرعیہ
ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو چوری، ڈاکہ، بے حیائی، دھوکہ دہی وغیرہ سب ایسے جرائم ہیں جن کے گناہ و مجرم ہونے پر سارا ہی جہاں
متفق ہے، مگر کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان میں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ کام بالکل ہی بے فائدہ ہوتے تو بالکل مجنون کے سوا کوئی ان کے پاس نہ جاتا، مگر دنیا کو دیکھئے
تو ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے بڑے بڑے ہوشیار لوگ نظر آئیں گے۔ وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ ان لوگوں کی نظر ان جرائم کے ایک جتنی فائدہ پر ہوتی
ہے اس کے بڑے نتائج اور عواقب ان کی نظروں سے اٹھل ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ان جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کی نظر نتائج اور حقائق پر ہوتی ہے وہ
چوری اور ڈاکہ کے ذریعہ فوری مالدار کے فائدہ کے ساتھ ساتھ اس کے مفاسد اور خرابیوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس لئے ان کو یہ چیزیں مسخوف نظر آتی ہیں بلکہ خود مجرم
بھی جب نتائج پر نظر کرتا ہے تو اپنے فعل کو بُرا ہی سمجھتا ہے۔

اسی طرح اگر تصویریں کے ذریعہ حیوانات کا پہچانا آسان ہو جاتا ہے اس کے بغیر جب تک طویل عبارت سے ان کی صورت اور کیفیات کو بیان نہ کیا جائے
پہچانا مشکل ہوتا ہے تو اس آسانی کے بالمقابل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا عذاب کیا اس سے کم ہے جو ایک چور کو چوری کے
فائدہ کے بالمقابل پہنچتا ہے اور جس کی وجہ سے عقلاً دنیا میں کوئی بھی چوری کو اس کے وقتی اور سطحی فائدہ کے پیش نظر جائز نہیں قرار دیتا۔
یہ جگہ اس بحث کی نہیں کہ جانداروں کی تصویر کو حرام قرار دینے میں کیا حکمت ہے؟ اور کیوں اس شدت کے ساتھ اسلام نے اس کو رد کر رکھا ہے۔ میرے رسالہ
التصویر الاحکام تصویریں اس پر تفصیلی بحث موجود ہے ضرورت ہو تو اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔

یہاں تو صرف اتنا بتانا ہے کہ مسلمان سہولت اور جدت پسندی کی یہ قیمت ادا نہیں کر سکتا کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے بھی آنکھیں بند کر لے
اگر جانداروں کا پہچانا بغیر تصویر کے کچھ مشکل ہے تو مسلمان اس مشکل کو مصیبت اور گناہ کے مقابل میں خوشی سے قبول کرنے کے لئے تیار ہوگا خصوصاً جب کہ
اس جانور کے پہچانے پر اس کا کوئی ضروری کام بھی موقوف نہ ہو۔ ورنہ مواقع ضرورت میں استثنائی احکام خود ضرورت اسلام میں موجود ہیں۔

تہذیب المنجیث اردو

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ صَفْوَةِ خَلْقِهِ وَسَيِّدِ رُسُلِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ شَفَعُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ
١٣٤٩



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چند اہم و ضروری قواعد صرفیہ کی شناخت

مجرد کو مزید بنانے میں حسب ذیل مختلف اغراض کا فرما ہوتی ہیں

اغراض پیش نظر

اوزان مزید

(۱) تعدیہ، لازم کو متعدی کرنا یا اگر فعل متعدی ہو تو ایک اور مفعول کا اضافہ کرنا، جیسے فَرَحَ (مزید خوش ہوا) سے فَرَحْتُ (میں نے اس کو خوش کیا)

فَعَّلَ

(۲) تنکیر، مفعول کی تنکیر مراد ہو جیسے قَطَعْتُ الْجَبَلَ (میں نے رتی کے بہت سے ٹھوڑے کٹے)
(۳) نسبت، مفعول کی نسبت اصل فعل کی طرف مقصود ہو جیسے كَفَّرْتُ (میں نے اس کو کفر کی طرف منسوب کیا اور اس کو کافر ٹھہرایا)
(۴) سلب، کسی چیز سے ماخذ کو دور کرنا، جیسے قَسَرْتُ الْعُودَ (میں نے لکڑی سے اس کو بھلکا دور کیا)
(۵) اتخاذ، کسی اسم کو ماخذ بنانا، جیسے خَتَمَ الْقَوْمَ (لوگوں نے خیمے لگائے)

(۱) اشتراک، دو مفعول کا مل کر کوئی کام کرنا جن میں ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی جیسے صَادَبَ زَيْدٌ عَمْرًا (زید نے عمرو کو اور عمرو نے زید کو مارا بیٹھا)۔

فَاعَلَ

(۲) موافقت فَعَلَ - فَعَلَ کے ہم معنی ہونا، جیسے صَاعَقْتُ الشَّيْءَ (میں نے اس کو دوچند کر دیا) بمعنی ضَعَفْتُهُ۔
(۳) موافقت أَفْعَلَ، أَفْعَلَ کے ہم معنی ہونا جیسے يَاعَدْتُہُ (میں نے اس کو دور کیا) بمعنی أَبْعَدْتُہُ۔
(۴) موافقت مجرّد - مجرّد کے ہم معنی ہونا جیسے سَاَفَرْتُ زَيْدًا (زید نے سفر کیا) بمعنی سَفَرًا۔
(۱) تعدیہ، جیسے خَرَجَ زَيْدًا (زید نکلا) سے أَخْرَجْتُمُ (میں نے اس کو نکالا)۔

أَفْعَلَ

(۲) دخول، ماخذ میں آنا جیسے اَمْسَى زَيْدًا (زید شام میں داخل ہوا)۔
(۳) قصد، کسی جگہ کا قصد کرنا جیسے اَغْرَقَ - (عراق کا قصد کیا)۔
(۴) صیورت، صاحب ماخذ ہونا جیسے اَلْبَنُ الْبَقَرُ (گائے دودھ والی ہوگئی)۔
(۵) مبالغہ، کسی شے کی کیفیت یا مقدار کی زیادت بیان کرنا جیسے اَسْفَرَ الصَّبِيحُ صَبْحٌ خُوبٌ رُشَنٌ ہوگئی۔
(۶) وجدان، کسی چیز کو ماخذ کے ساتھ متصف پانا جیسے اَجَلَّتْ زَيْدًا (میں نے زید کو بخیل پایا)۔
(۷) عرض، مفعول کو فعل ماخذ میں پیش کرنا جیسے اَبْعَثْتُ الْفَرَسَ (میں نے گھوڑے کو بھیجنے کی جگہ مندی میں برائے فوج کی پیش کیا)۔
(۸) سلب، جیسے اَشْكَيْتُهُ (میں نے اس کی شکایت دُر کی)۔

(۹) حینوت، کسی چیز کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا، جیسے اَحْصَدَا الزَّرْعُ (کھیتی کاٹنے کا وقت آپہنچا)۔

(۱۰) موافقت مجرّد - جیسے اَقْلْتُ الْبَيْعَ (میں نے بیع کو فسخ کیا)۔
(۱۱) مطاوعت فَعَلَ - فَعَلَ کے بعد اس کا اس غرض سے آنا کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کیا، جیسے عَلَّمْتُهُ فَعَلَمَ (میں نے اس کو سکھایا)۔

تَفَعَّلَ

تو وہ سیکھ گیا۔

- (۲) تَلَفَّ ، ماخذ میں تصنع و بناوٹ ظاہر کرنا تَشَبَّعَ عَمْرُوٌ و عَمْرُوٌ تَلَفَّ بہادر بنا۔
 (۳) اتَّخَذَ ، کسی چیز کو بنانا ماخذ میں لینا جیسے تَابَطَ الصَّبِيَّ عَمْرُوٌ عمرو نے بچہ کو بغل میں لیا۔
 (۴) تَجَنَّبَ ، ماخذ سے پرہیز کرنا جیسے تَأْتَمَّ اس نے گناہ سے پرہیز کیا۔
 (۵) صَيَّرَ ، جیسے تَمَوَّلَ زَيْدٌ زید مال دار ہو گیا۔
 (۶) تَدَرَّجَ ، کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا جیسے تَجَرَّعَ زَيْدٌ زید نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا۔
 (۷) طَلَبَ ، جیسے تَجَلَّ الثَّغْيُ اس نے کسی چیز میں عجلت چاہی۔

- (۸) اتَّسَبَ ، جیسے تَبَدَّى بادیہ کی طرف منسوب ہوا۔
 (۹) اشْتَرَاكَ ، جیسے تَشَاتَمَا دونوں نے ایک دوسرے کو گالی دی۔
 (۱۰) مَطَاوَعَتٌ ، فاعِلٌ جیسے بَاعَدْتُهَا فَبَاعَدَ میں نے اس کو دور کیا وہ دور ہو گیا۔
 (۱۱) تَخَيَّلَ ، وہ صفت ظاہر کرنا جو حقیقت نہ ہو جیسے تَمَارَصَ اُس نے اپنے آپ کو مرعوض ظاہر کیا۔
 (۱۲) تَدَرَّجَ ، جیسے تَوَارَدَ الْقَوْمُ لوگ ٹھہر ٹھہر کر آئے ، بدفعات آئے۔
 (۱۳) مَوَافَقَتٌ مَجْرُودٌ ، جیسے تَعَالَى اللّٰهُ بمعنی عَلَا۔

اِفْتَعَلَ :- (۱) مَطَاوَعَتٌ فَعْلٌ ، جیسے جَمَعْتُهُ فَاَجْتَمَعَ میں نے اس کو جمع کیا تو وہ جمع ہو گیا۔

- (۲) اتَّخَذَ ، جیسے اخْتَجَرَ الْفَارُ جوہے نے بل بنایا۔
 (۳) مَبَالِغٌ ، جیسے اِكْتَسَبَ ، اُس نے کسب میں مبالغہ کیا۔
 (۴) طَلَبَ ، جیسے اِكْتَدَّ خَلَاتًا اُس نے خلات سے مشقت طلب کی۔
 (۵) مَوَافَقَتٌ فَعْلٌ ، جیسے اِجْتَذَبَ بمعنی جَذَبَ۔
 (۶) مَوَافَقَتٌ فاعِلٌ ، جیسے اِخْتَصَمَ بمعنی تَخَاصَمَ۔
 (۱) مَطَاوَعَتٌ فَعْلٌ ، جیسے اَغْلَقَ الْبَابَ فَاَنْغَلَقَ اُس نے دروازہ بند کیا تو وہ بند ہو گیا۔
 (۲) مَطَاوَعَتٌ فَعْلٌ ، جیسے كَسَرْتُهٗ فَاَنْكَسَرَ میں نے اُس کو توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔

فائدہ :- باب انفعال ہمیشہ لازم آتا ہے متعدی نہیں اور ہمیشہ ایسے معانی کے لئے آتا ہے جن کا تعلق اعضائے ظاہری سے ہو۔
 اِفْعَلَ :- (۱) دخول ، کسی صفت میں داخل ہونا جیسے اِحْمَرَّ الْبُسْرُ کھجور نے سرخی پکڑ لی۔
 (۲) مَبَالِغٌ ، جیسے اِسْوَدَّ اللَّيْلُ رات بہت تاریک ہو گئی۔

- فائدہ :- باب اِفْعَالَ اکثر الوان و مایوس کے لئے آتا ہے۔
 اِسْتَفْعَلَ :- (۱) طَلَبٌ ، جیسے اِسْتَغْفَرَ اُس نے مغفرت طلب کی۔
 (۲) وَجِدَانٌ ، جیسے اِسْتَكْرَمْتُهُ میں نے اس کو کرم سے متصف کیا۔
 (۳) تَحَوَّلَ ، قلب ماہیت یا صفت ہو کر ماخذ بن جانا ، جیسے اِسْتَحْجَرَ الطَّيْنُ مٹی پتھر ہو گئی۔
 (۴) تَلَفَّ ، جیسے اِسْتَجْرَأَ اس نے حرات سے تکلف دکھائی۔
 (۵) مَطَاوَعَتٌ فَعْلٌ ، جیسے اَقَمْتُهُ فَاَسْتَقَامَ میں نے اس کو سیدھا کیا وہ سیدھا ہو گیا۔
 (۶) مَوَافَقَتٌ مَجْرُودٌ ، جیسے اِسْتَقَمَّ بمعنی قَرَّ۔

اَفْعَوْلَ :- (۱) مبالغہ، جیسے اِحْدَدَ دَب بہت کبڑا ہو گیا۔

(۲) موافقت مجرّد، جیسے اِحْكُوْكَ التَّمَّ بِمَعْنٰی حَلَا۔

اَفْعَوْلَ وَاِفْعَالَ :- مبالغہ، جیسے اَجَلَوْذ وہ بہت تیز دوڑا اِحْمَاسًا اس کی سرخی تیز ہو گئی

قاعدہ :- وزن اِفْعَالَ، الوان و میوب کے لئے مخصوص ہے۔

تَفَعَّلَ :- مطاوعت تَفَعَّلَ، جیسے دَخَرَجْتَهُ فَنَدَحَرَجَ میں نے اس کو رٹھکایا، سو وہ رٹھک گیا۔

اَفْعَلَّ وَاِفْعَلَّ :- مبالغہ، جیسے اِشْحَفَصَ اس نے نہایت شتابی کی اِقْشَعَرَّ وہ سخت خوف یا ڈر یا سردی کے باعث کانپ گیا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔

تنبیہ :- مجرد کو مزید میں لانے کی یہ چند اہم اغراض تھیں جو سپرد قلم ہوئیں، علمائے صرف نے اور اغراض کا بھی ان میں اضافہ کیا ہے، مگر ہم نے طوالت کلام کے خوف سے اُن کو نظر انداز کر دیا۔

یہ واضح رہے کہ ان ابواب مزید فیہ کے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہر مجرد سے ان کو بنالیا جائے، بلکہ یہ سب سماعی چیزیں ہیں جن کا مدار سماع اور کتب لغت پر ہے۔

مشتقات

فعل سے جو اسماء مشتق ہوتے ہیں وہ کل دس ہیں :-
مصدر، اسم مَرء، اسم نوع، ظرف مکان و ظرف زمان، اسم آلہ، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مبالغہ

مصدر

ثلاثی مجرد کے مصادر قیاسی نہیں، اُن کے چند اوزان ہیں جن کی شناخت کا مدار سماع پر ہے، چنانچہ اکثر و بیشتر :-

- (۱) جو پیشہ کے معنی دیتے ہیں وہ فَعَالَتہ کے وزن پر آتے ہیں جیسے زِرَاعَتہ، تَجَارَعَتہ، حَيَاكَتہ - وغیرہ
- (۲) جو امتناع کے معنی دیتے ہیں وہ فِعَال کے وزن پر آتے ہیں جیسے اِبَاء، شَرَاء، جِمَاع -
- (۳) جو اضطرار کے معنی کو مفید ہوتے ہیں اُن کا وزن فَعْلَان ہوتا ہے جیسے غَلِيَان، جَوْلَان، خَفَقَان
- (۴) جو بیماری و مرض کے معنی ظاہر کریں وہ فُعَال کے وزن پر ہوتے ہیں جیسے مَدَاع، زُكَام، دُوَاد
- (۵) جن سے سب کے معنی لکھیں وہ فَعِيْل کے وزن پر آتے ہیں جیسے رَحِيْل، ذَمِيْل -
- (۶) جن سے آواز کے معنی سمجھے جائیں اُن کا وزن فُعَال یا فَعِيْل ہوتا ہے جیسے مَرَاخ، زَمِيْر -
- (۷) جو کسی رنگ کے معنی پر دلالت کریں اُن کا وزن فُعْلَتہ ہوتا ہے جیسے حُمَرَاء، زُرْقَاء، حُمْرَاء -

اور اگر مذکور المصدر معانی نہ ظاہر کریں تو بیشتر :-

- (۱) فَعْل کا مصدر فُعْلَتہ یا فَعَالَتہ کے وزن پر آتا ہے جیسے سُهْلَتہ، نِبَاهَتہ، فَصَاحَتہ
- (۲) اور فَعِل لازمی کا مصدر فَعْل کے وزن پر آتا ہے جیسے فَرَح، عَطَش، بَجْ
- (۳) اور فَعَل لازمی کا مصدر فَعُول کے وزن پر آتا ہے جیسے قُود، خُرُوج، تَهْوِمْ
- (۴) اور فَعِل و فَعَل متعدی کا مصدر فَعْل کے وزن پر آتا ہے جیسے قَهْم، نَصْر -

مصادر غیر ثلاثی

یہ سب کے سب قیاسی ہیں، اور حسب ذیل احکام کی رو سے ان کا استعمال ہوتا ہے :-

فَعَّلَ :- اس کا مصدر تَفْعِيلُ آتا ہے جیسے فَرَحَ تَفْرِيحًا، اور کبھی تَفْعِلَتَہ کے وزن پر بھی جیسے وَسَّعَ تَوْسَعًا وَقَدَّمَ تَقْدِيمًا اور اگر مہمز اللام ہو تو تَفْعِلَتَہ کے وزن پر زائد اور تَفْعِيلُ کے وزن پر کم آتا ہے جیسے نَبَأٌ تَنْبِئَةٌ وَوَطَأٌ تَوَاطُؤٌ وَهَتَأٌ تَهْنِئَةٌ اور اگر ناقص ہو تو صرف تَفْعِلَتَہ کا ہی وزن آتا ہے جیسے عَلَى تَعْلِيَةٍ وَزَكَاةٌ تَزْكِيَةٌ اور اگر جوف ہو تو صرف تَفْعِيلُ کے وزن پر آتا ہے جیسے قَوَّمَ تَقْوِيمًا، سَوَّدَ تَسْوِيدًا۔

فَاعِلَ :- اس کا مصدر فَعَالٌ وَمُفَاعَلَتَہ آتا ہے، جیسے قَاتَلَ قِتَالًا وَمُقَاتَلَتَہ البتہ جہاں قَا کلمہ یا ر ہوں مفاعلت کا وزن مخصوص ہے جیسے يَاسُومِيَا سِرَّةً وَيَا مَنَ مِيَا مَنَةً اور يَا وَهَ مِيَا وَهَمَةً اور يُوَا مًا شَاذَہ۔

أَفْعَلَ :- اس کا مصدر اَفْعَالُ ہے جیسے اَكْرَمَ اِكْرَامًا اگر عین کلمہ میں حرف علت ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو نقل کر کے الف سے بدل دیتے ہیں پھر و الف جمع ہوجانے کے باعث ایک کو حذف کر کے اس کے عوض میں آخر میں تاء بڑھا دیتے ہیں جیسے اَمَاتَ اِمَاتَةً، اَغَاثَ اِغَاثَةً، اَشَارَ اِشَارَةً۔

تَفَعَّلَ :- اس کا مصدر تَفَعَّلُ ہے جیسے تَقَدَّرَ تَقَدُّمًا اور جب لام کلمہ حرف علت ہو تو یاء سے بدل کر ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں جیسے تَأَنَّى تَأَنِيًا، تَقَضَّى تَقَاضِيًا۔

اِفْتَعَلَ :- اس کا مصدر اِفْتَعَالُ ہے جیسے اِشْتَرَكَ اِشْتِرَاكًا۔

اَفْعَلَّ :- اس کا مصدر اَفْعِلَالُ ہے جیسے اِحْمَرَ اِحْمَرًا۔

اِنْفَعَلَ :- اس کا مصدر اِنْفَعَالُ ہے جیسے اِنْطَلَقَ اِنْطِلَاقًا۔

اِسْتَفْعَلَ :- اس کا مصدر اِسْتِفْعَالُ ہے جیسے اِسْتِخْرَجَ اِسْتِخْرَاجًا لیکن عین کلمہ اگر حرف علت ہو تو الف سے بدل کر حذف کر دیتے ہیں اور آخر میں تاء بڑھا دیتے ہیں جیسے اِسْتِقَامَ اِسْتِقَامَةً۔

اِفْعَوَّلَ :- اس کا مصدر اِفْعِيْعَالُ ہے جیسے اِحْدَوْدَبَ اِحْدِيدًا۔

فَعَعَلَ :- اس کا مصدر فَعَعَلَتَہ وَفَعَعَالُ ہے جیسے دَخَرَجَ دَخْرَجَةً وَدَخْرَاجًا دوسرا وزن صرف مضاعف ہونے کی صورت میں قیاسی ہوتا ہے وزن سماعی جیسے وَسَوَسَ وَسَوَسَةً وَسَوَاسًا۔

تَفَعَعَلَ :- اس کا مصدر تَفَعَعَلُ ہے جیسے تَدَخَرَجَ تَدَخْرَجًا۔

اَفْعَعَلَ :- اس کا مصدر اَفْعَعَالُ ہے جیسے اِحْرَجَمَ اِحْرَجَمًا۔

اِفْعَعَلَ :- اس کا مصدر اِفْعَعَالُ ہے جیسے اِقْشَعَرَ اِقْشَعَارًا۔

فعل مجہول کے مصدر کے لئے کوئی مخصوص وزن نہیں، جو فعل معروف کا مصدر ہوتا ہے بس وہی فعل مجہول کا مصدر شمار ہوتا ہے جیسے ضَرَبَ ضَرْبًا، جس طرح معروف میں کہا جاتا ہے ضَرَبَ ضَرْبًا۔

مصدر مہمی

ثلاثی مجرد سے مصدر مہمی مَفْعَلُ کے وزن پر آتا ہے مُنْظَرٌ، مُضْرَبٌ، هَمٌّ مَلِ اس قاعدہ سے مَرْجِعٌ، مَسِيرٌ، مَصِيرٌ مَشِيْبٌ، هَمٌّ فِئٌ، مَقِيلٌ، مَجِيئٌ سات الفاظ مستثنیٰ ہیں۔

مثال داوی سے مَفْعِلُ کے وزن پر آتا ہے خواہ مضارع کا عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح جیسے مَوْرِدٌ، مَوْعِدٌ، مَوْجِلٌ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مضارع مجہول کے وزن پر آتا ہے اور بجائے علامت مضارع کے میم مفہوم لگاتے ہیں جیسے مُنْخَدَرٌ - مُصْطَبِرٌ - هَمٌّ دَحِمٌ۔

اسم مرہ و اسم نوع

اسم مرہ وہ مصدر ہے جو فعل کے صرف ایک دفعہ ہونے کو ظاہر کرے۔

اسم نوع وہ مصدر ہے جو فعل کی ہیئت وقوع بتائے۔

اسم مرہ ثلاثی مجرد سے فَعَلَتْ کے وزن پر آتا ہے جیسے ضَرَبْتُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً أَخَذْتُ ثَلَاثِيَّ جُرْدٍ کے علاوہ دوسرے ابواب میں اسم مرہ بنانے کے لئے باب کے اصل مصدر پر تاہر بڑھانی پڑتی ہے جیسے انْفَلَتُ انْفِلَاتَةً، انْطَلَقْتُ انْطِلَاقَةً ثلاثی وغیرہ کے مصادر کے آخر میں جب تاہر آجائے تو اسم مرہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کا لانا ضروری ہے جو وحدت کے معنی دے جیسے ضَرْبَةً وَاحِدَةً، قَاتِلَتُهُ مَقَاتِلَةً لَا غَيْرَ، مَا انْفَلَتُ إِلَيْهِ إِلَّا انْفِلَاتَةً أَجَبَتْهُ إِبْجَابَةً فَقَطٌ۔

اسم نوع ثلاثی مجرد سے فَعَلَتْ کے وزن پر آتا ہے جیسے وَقَفْتُ وَقْفَةً، الْأَسَدُ وَمَشَى مَشْيَةً، الْمُخْتَالِ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اسم مرہ ہی کے وزن پر آتا ہے جیسے حَسَنٌ، انْطَلَقْتُ وَقَبِيحُهُ الْمُعَاثِرَةُ۔

ظرف مکان و ظرف زمان

ظرف مکان وہ ہے جو وقوع فعل کی جگہ کو بتائے ظرف زمان وہ ہے جو وقوع فعل کے وقت کو بتائے۔

ظرف مکان و ظرف زمان ہر دو مفعول کے وزن پر آتے ہیں، جب کہ ان کے مضارع کا یکن کلمہ یا مفتوح ہو جیسے مَطْلِعٌ، مَدْبُوحٌ۔

اور جب یکن کلمہ مکسور ہو تو مفعول کے وزن پر آتے ہیں جیسے مَجْلِسٌ، مَنَزِلٌ اس قاعدہ سے الفاظ مندرجہ ذیل مستثنیٰ ہیں، کیوں کہ ان کا مضارع کو مضموم العین ہے مگر پھر بھی یہ مفعول کے وزن پر آتے ہیں جیسے سَجِدٌ، مَشْرِقٌ، مَغْرِبٌ، مَطْلِعٌ، مَجْنَزٌ، مَرْقِیٌّ، مَعْرِقٌ، مَسْكِنٌ، مَنَسِكٌ، مَدْنِتٌ، مَسْقِطٌ۔

مثال سے ظرف زمان و مکان ہمیشہ مفعول کے وزن پر آتا ہے اور ناقص سے ہمیشہ مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے مَوْعِدٌ مَوْجِلٌ، مَطْوِیٌّ، مَرْمِیٌّ، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ دیگر ابواب سے مصدر بھی کے مانند جیسے اَدْخَلَ سے مَدْخَلٌ جان لیجئے کہ مَفْعَلَتَ کا وزن کسی جگہ کسی چیز کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے جیسے مَقْبَرَةٌ، جہاں قبریں بکثرت ہوں مایکہ جہاں اونٹ بہت ہوں مَفْعَاةٌ جہاں سانپ زیادہ ہوں مَسْبَعَةٌ، جہاں زندے بکثرت ہوں، ثلاثی مجرد و مزید سے یہ وزن قیاسی ہے، بعض کا خیال ہے کہ وزن گوہر میں معنی بکثرت آتا ہے مگر قیاسی نہیں۔

اسم آلہ

اسم آلہ اس آلہ یا اس آواز کو بتاتا ہے جس سے کوئی کام کیا جائے، یہ صرف ثلاثی مجرد متعدی سے بنتا ہے، البتہ مَصْفَاةٌ (صفا) سے مَرْقَاةٌ (رقا) سے مِزْمَارٌ (ساز) سے مستثنیٰ ہیں۔

اسم آلہ کے تین وزن ہیں :- مِفْعَلٌ جیسے مِزْدٌ، مِفْعَالٌ جیسے مِفْتَاحٌ، مِفْعَلَتَ جیسے مِلْكَنَسَةٌ، مَفْعَلٌ مَدْهَنٌ، مَكْحَلَةٌ، مَدَاقٌ، مَسْعُطٌ، مَنَارَةٌ، مَشْطٌ۔ وغیرہ الفاظ اسمائے جامدہ کے مانند ہیں، ان میں فعل سے اشتقاق کا اعتبار نہیں اور وہ اسم آلہ جو فعل سے مشتق نہ ہو سکے اس کے لئے کوئی ضابطہ نہیں، مختلف اوزان پر آتا ہے جیسے قُدُومٌ، سِکِّينٌ، فَنَاسٌ۔ وغیرہ۔

اسم فاعل و اسم مفعول

اسم فاعل اس ذات کو بتاتا ہے جس سے فعل کا صدور ہوا ہو، یہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے جیسے ضارب، قاتل، ناصب۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ دیگر ابواب سے مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے اس صورت سے کہ علامت مضارع کو متیم مضموم سے بدل جاتا ہے اور ما قبل آخر کو کسرہ دیا جاتا ہے، جیسے مکرہ، متقدّم۔

اسم مفعول اس ذات کو بتاتا ہے جس پر فعل واقع ہوا ہو، یہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے مضروب، مأخوذ اور ثلاثی مجرد کے علاوہ دیگر ابواب سے مضارع مجہول کے وزن پر اس صورت سے کہ علامت مضارع کو متیم مضموم سے بدل جاتا ہے اور ما قبل آخر کو فتح دیا جاتا ہے جیسے مکرّم، مدّاح۔

تنبیہ:۔ قیاس تو یہی چاہتا ہے کہ اسم فاعل و اسم مفعول کا اشتقاق اپنے ہی فعل سے ہو، خواہ وہ مجرد ہو، خواہ مزید، لیکن بعض الفاظ شاذ ہونے کے سبب اس قیاس کے ماتحت نہیں آتے جیسے امحل سے ماحل، املح سے مالح، ایفح سے یافح، اعشب سے عاشب، احبہ سے محبوب، اجنہ سے مجنون، احمہ سے محموم، ازکمہ سے مذکور، اسلہ سے مسلول۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ دیگر ابواب سے اسم مفعول مصدری، ظرف زمان و مکان ایک ہی وزن پر آتے ہیں صرف قرآن منور کے ذریعہ امتیاز کر لیا جاتا ہے

صفت مشبہ

صفت مشبہ اس ذات کو بتاتا ہے جس میں معنی مصدری بطور ثبوت یعنی پائیداری کے پائے جاتے ہوں جیسے جمیل ثلاثی مجرد سے اس کے اوزان سماعی ہیں جیسے حسن، کریم، کین، سهل، صعب، ان اگر فعل لون، عیب یا حلیہ پر دلالت کرے تو صفت مشبہ کے لئے وزن افعّل کا ہے جیسے اسود، اخرج، ابکج۔

اور ثلاثی مجرد کے علاوہ دیگر ابواب سے اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے صفت مشبہ صرف ابواب لازمہ سے آتی ہے جیسے

اسم تفضیل

اسم تفضیل اس ذات کو بتاتا ہے جس میں اوزان کی نسبت مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے، اس کو فعل التفضیل بھی کہتے ہیں، اس میں مذکر کے لئے افعّل کا وزن مقرر ہے اور مؤنث کے لئے فُعّلی کا، اور یہ صرف ثلاثی مجرد کے ابواب سے بنتا ہے، رہے وہ مادے جو رنگ، عیب، حلیہ پر دلالت کرتے ہیں، ان سے اسم تفضیل کا صیغہ نہیں آتا، بلکہ اسی وزن پر صفت کا صیغہ آتا ہے۔

اور وہ ابواب مادے جن سے اسم تفضیل کا صیغہ افعّل کے وزن پر نہیں آ سکتا، ان سے اگر اسم تفضیل کے معنی ظاہر کرنا ہوں تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ آشدّا یا اصفّر یا انہی جیسے الفاظ کے بعد اس باب کا مصدر منصوب استعمال کرتے ہیں جیسے آشدّا مودّا، آشدّا اصفّر۔ اسم تفضیل معروف اور ثلاثی مجرد سے بنتا ہے لیکن بعض الفاظ شاذ و معمول، اور ابواب غیر ثلاثی سے بھی آتے ہیں مثلاً اعود احمد میں (احمد) حمید سے اور (حاتم اعطی من عمرو) میں راعطی (اعطی) سے اور (هذا السقر اخصر من ذلك) میں راحصر (اخصر) سے ہیں کبھی اسم تفضیل اسم جاد سے بھی آتا ہے، جیسے "ما بالبا دیبہ انو ائمہ" میں (انو) کوئے سے ماخوذ ہے خیر و شر دراصل اخیذ و اشتر تھے، کثرت استعمال کے باعث ہر دو یکساں سے ہر دو کا سقوط ہوا کبھی مع ہمزہ کے بھی استعمال ہوتے ہیں۔

اوزان مبالغہ

مبالغہ ہے جو کسی فاعل میں مصدری معنی کی زیادتی کو بتائے، اس کے مشہور وزن یہ ہیں۔

(۱) فَعَالٌ جیسے عَلَامٌ وَنَصَارٌ (۲) فَعَالَةٌ جیسے عَلَامَةٌ وَفَهَامَةٌ (۳) فَعِيلٌ جیسے صِدِّيقٌ وَصَكْبٌ (۴) مَفْعِلٌ جیسے مَسْكِينٌ وَمُعْطِيٌّ (۵) مَفْعَالٌ جیسے مَكْسَالٌ وَمَقْدَامٌ (۶) فَعَلَتْ جیسے مُعَلِّمَةٌ وَصَبَّحَتْ (۷) فَعِلٌ جیسے شَرَفٌ وَخَدَّعٌ (۸) فَعِيلٌ جیسے رَحِيمٌ وَعَظِيمٌ (۹) فَعُولٌ جیسے كَذُوبٌ وَدَوْدٌ (۱۰) فَاعِلَةٌ جیسے رَاوِيَةٌ (۱۱) فَعُلٌ جیسے عَفْلٌ (۱۲) فَعُولَةٌ جیسے سَرُوسَةٌ (۱۳) مَفْعَلٌ جیسے مَحْرَبٌ (۱۴) فَاعُولٌ جیسے قَارُوقٌ (۱۵) فَعَالٌ جیسے بُتَارٌ۔

مبالغہ کے اوزان سب سماوی ہیں، اور وہ صرف ثلاثی مجرد سے آتے ہیں البتہ دَرَاك، اَدْرَاك سے اور مِعْطَاء اَعْطَى سے مِعْمَوَاتُ اَهَانَ سے، مِحْسَانُ اَحْسَنَ سے، مِثْلَاكٌ اَتْلَفَ سے، مِثْلَاقٌ اَمْلَقَ سے، مِخْلَافٌ اَخْلَفَ سے، اور مِصْمِيعٌ اَسْمَعَ سے، نَذِيرٌ اَنْذَرَ سے، زَهْوَقٌ اَزْهَقَ سے شاذ ہیں۔

قائدہ:- بعض اوزان مبالغہ کے ساتھ تالافظی ہوتی ہے تو وہ تائید نہیں ہوتی، بلکہ تاکید مبالغہ کے لئے آتی ہے جیسے عَلَامَةٌ (بہت بہت جاننے والا) قَرُوقَةٌ (بہت بہت فرق کرنے والا) مَجْدَامَةٌ (بہت بہت کاٹنے والا)۔

جب فَعِيلٌ فَاعِلٌ کے معنی میں ہوں تو مذکر مؤنث میں فرق ہوگا خواہ موصوف کا ذکر ہو یا نہ ہو، جیسے "رَجُلٌ نَصِيرٌ" "اِنْسَانٌ نَصِيرٌ" وَجَاءَ نَصِيرٌ وَنَصِيرَةٌ"۔

اور اگر فَعِيلٌ بمعنی مَفْعُولٌ ہو اور موصوف بھی ساتھ ساتھ مذکر ہو تو مذکر مؤنث میں ایک ہی حالت ہوگی جیسے "زَيْدٌ قَتِيلٌ" وَاَتَتْ لَهَا اَقَةٌ جَرِيحًا" اور نیز موصوف کے فرق ہوگا جیسے "جَاءَ حَبِيبٌ وَحَبِيبَةٌ"۔

اسی طرح اگر فَعُولٌ بمعنی فَاعِلٌ ہو تو موصوف کے ساتھ مذکر مؤنث میں ایک حالت رہے گی، جیسے يَحْيَى الْبُتُولُ، سَامِيَةُ الْبُتُولُ اور اگر موصوف نہ ہو تو فرق ہوگا جیسے:- جَاءَ بُتُولٌ وَبُتُولَةٌ۔

اور اگر فَعُولٌ بمعنی مَفْعُولٌ ہو تو مؤنث و مذکر میں فرق و امتیاز ہوگا خواہ موصوف مذکر ہو یا نہ ہو جیسے هَذَا رَسُوْلٌ وَتِلْكَ رَسُوْلَةٌ وَجَاءَ رَسُوْلٌ وَرَسُوْلَةٌ۔

مذکر و مؤنث

مذکر علامت تذکیر سے بے نیاز ہے، البتہ مؤنث کے لئے تین علامتیں مقرر ہیں:-

(۱) تاء جیسے ظَلَمَةٌ، قَوَّةٌ، نَعْمَةٌ، تَدَارُةٌ (۲) الف مقصورہ جیسے عَذَابِي، فَضْلِي، كَبْرِي، عَطْشِي۔

(۳) الف ممدودہ، جیسے حَمَاءٌ، سَوْدَاءٌ، بَيْضَاءٌ، زُرْقَاءٌ۔

ہر علامت تائید آخر اسم میں زائد کی جاتی ہیں، اور یہ اسم کو مؤنث بنا دیتی ہیں، لیکن وہ اسماء جو مردوں کے نام ہوں ان کے آخر میں گو علامات تائید ہوں مذکر ہی رہتے ہیں، جیسے طَلْحَةُ، نَخْلَةُ، آرطَى، خَضْرَاءٌ وغیرہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث لفظی، مؤنث معنوی۔

مؤنث لفظی وہ ہے جس میں علامت تائید ظاہر ہوئی ہو، جیسے اشلہ مذکورۃ الصدر میں۔

مؤنث معنوی وہ ہے جس کو اہل زبان نے مؤنث مانا ہو لیکن اس میں کوئی ظاہری علامت تائید نہ ہو، یہ چار قسم پر ہے:-

(۱) عورتوں کے نام جیسے:- مریم، زینب وغیرہ۔

(۲) وہ اسماء جو عورتوں کے لئے ہی مخصوص ہوں، جیسے:- اُخْتُ، اُمُّ وغیرہ

(۳) شہروں اور قبیلوں کے نام، جیسے:- شَامٌ، مَقَرٌ، قَرِيشٌ وغیرہ

(۴) اُن اعضاء جسمانی کے نام جو دَوْدُوں جیسے: عَيْنٌ، رَجُلٌ، اُذُنٌ لیکن یہ آخر کا حکم اکثری ہے کیوں کہ صَدَغٌ، مَرْفُوقٌ، حَاجِبٌ اَخَدٌ وغیرہ مؤنث نہیں ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ ہیں جن کو اہل لغت نے جمع کہا ہے یوں تو وہ بہت ہیں مگر ہم چند کا ذکر کرتے ہیں۔

اُذْن، اَرْض، اَرْنَب، اَرَوِي، اَسْت، اَصْبَح، اَفْعَى، اَبْر، اَجْعَلِم، اَجْهَتَم، حَرْب، دَاكِر، ذِرَاع، رَجُل، رَحْم، رَجِي
رَجِيح، سَقَر، سَن، سَاق، شَمْس، شَمَال، ضَبْع، عَرُوض، عَصَا، عَقَب، عَيْن، فَاَس، فُخْدَا، فَلَك، قَدْر، قَوَس
كَاس، كَفَت، كَرَشِي، كَفَت، نَار، نَعْل، نَاب، وَرَاء، يَد، يَمَن -

ہوا کے جواسما میں وہ بھی مؤنث مانے جاتے ہیں جیسے صبا، قبول، جنوب، دبور، شمال، حیف، حروس، سمود وغیرہ
ان کے علاوہ بعض ایسے اسماء بھی ہیں جن میں تذکیر و تانیث دونوں صورتیں جائز ہیں، ان میں مشہور یہ ہیں:-

اَبْط، اَزَار، حَال، حَانُوت، خَمْر، دَرَع، دَلُو، رُوح، زَقَاق، سَبِيل، سَرِي، سَرَاوِيل، سَلَاح، سَلِيْن، سَلَم، سَلَم
سَمَاء، سَوَق، صَاع، ضَحَى، طَرَس، طَرِيق، عَجْمَہ، عَصَد، عَقَاب، عَقْرَب، عَنَق، عَنَكَبُوت، قَرْدُوس، قَرَس، فَمَہ، قَدَار
قَفَا، قَمِيص، كَيْس، لَسَان، مِسْكَ، مِلْح، مَنَجِيْق، مَوْسَى، نَفْس، وَرَاء -

حروف تہجی بھی حکم میں انھیں الفاظ کے شریک حال ہیں - **مثنیٰ**

وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے، کسی اسم واحد کو جب مثنیٰ بنانا چاہتے ہیں تو حالت رفعی میں اس کے آخر میں الف بڑھاتے ہیں اور حالت نصبی
جری میں یاد ما قبل مفتوح، اور آخر میں نوون مکسور زائد کرتے ہیں جیسے: جاء الرجلان، رائت الرجلین وھرت بالرجلین -
کوئی علم اگر مرکب اضافی ہو تو اس کے جزو اول (مضاف) کو مثنیٰ لاتے ہیں جیسے عبد الملک اور اگر مرکب بنائے یا مرکب اسنادی
ہو تو ان کو اپنی حالت پر رکھتے ہیں البتہ مذکورہ کی صورت میں ان سے پہلے ذوا اور مؤنث ہونے کی حالت میں ذواتا بڑھاتے ہیں جیسے
ذوا معد یکرب، ذواتا بعلبک، جمہ کا تثنیہ نہیں آتا وہ بیٹیں بعض، اجمع جمعاء، احد، عوینا، اسمائے اعدا اور وہ اسم تفضیل جرمین
— کے ساتھ استعمال ہو جیسے الیدان، افضل من الرجلین -

تثنیہ اسم منقوص

اسم منقوص وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یاد ما قبل مکسور ہو جیسے القافی اور اگر اس میں یا حذف ہو چکی ہو تو تثنیہ بناتے وقت کوٹا آتی
ہے جیسے راہ، رامیان، راعن، راعیان -

تثنیہ اسم مقصور

اسم مقصور وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں الف ہو، اور اس کے بعد ہمزہ نہ ہو جیسے عصا، ریحی، یہ الف اگر تیسرے حرف کی جگہ ہو، اور
کسی سے بدل کر آیا ہو تو تثنیہ بنانے کی صورت میں وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا، جیسے رجا، رجوان، فقی، فقیہ اور اگر الف چوتھی جگہ یا اس سے
زائد ہو تو یاد سے بدل جاتا ہے جیسے ذکریان اور قھقران و خوزلان شادیں کیوں کہ بروئے قیاس قھقریان و خوزلیان کہنا چاہئے تھا

تثنیہ اسم ممدود

اسم ممدود وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں ہمزہ ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ، جیسے صفراء، خضراء اس میں الف اگر تانیث
کے لئے ہو جیسے خضراء ہیں تو تثنیہ بناتے وقت ہمزہ کو واؤ سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے خضروان یہ جب ہے کہ الف سے پہلے واؤ
نہ ہو اور نہ ہمزہ کو باقی رکھتے ہیں تاکہ دو واؤ جمع نہ ہو جائیں جیسے عشواء سے عشوان -
اگر ہمزہ اصلی ہو تو بھی لزوم باقی رکھی جاتی ہے، جیسے لاء سے لاءان، قراء سے قراءان -

اگر ہمزہ نہ اصلی ہی ہوتی تانیث کے لئے تو اس میں ہر دو صوتیں روا ہیں، خواہ اس کو واؤ سے پس خواہ اس کو کنبہ رکھیں جیسے سماء سے سماءان اور سماءان -

تشنیہ اسماء محذوف اللام

وہ اسماء جن کا لام طر محذوف ہو، اس کے عوض میں کچھ نہ ہو تو تشنیہ بناتے وقت ان کا لام کلمہ واپس آئے گا جیسے آب کہ واصل آؤ تھا، بحالت تشنیہ ابوان اسی طرح اخوان، سنوان، عنان وغیرہ البتہ فم وینا میں واؤ واپس نہیں آئے گا، بلکہ کہیں گے فنان وینان

اور وہ اسماء جن میں محذوف کی جگہ کچھ ہو تو ان کو اپنی صورت پر اتی رکھ کر تشنیہ بنایا جائے گا، جیسے سنۃ، ابن، اسم کہ ان کا تشنیہ سنۃان، ابنان، اسمان ہے۔

جمع

جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا وزن سالم رہے، اور جنوں کا توں جو کچھ زیادہ ہو وہ آخر میں۔ اور جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے، بلکہ بکسر طبا آئے اور متغیر ہو جائے، پھر جمع سالم کی بھی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم

جمع مذکر سالم

جمع مذکر سالم وہ ہے کہ بحالت رفعی اس کے آخر میں واؤ ماقبل مضموم ہو، اور بحالت نصبی وجر ی یا ماقبل مکسور اور دونوں کے بعد نون جیسے جاء مسلمون، رأیت مسلمون، حرشہ باد۔ لیکن اس وزن پر جمع بنانے کے لئے یہ شرط ہے کہ اسم تانیث کی وجہ سے خالی ہو اور فاعل نہ مرکب، لہذا اطلعتہ کو مذکر علم ہے لیکن تانیث کی وجہ سے اس کی جمع واؤ نون سے نہیں آئے گی، اسی طرح معد یکوب وبعیدک وغیرہ، یا عبد الملك واتباطشرا کہ یہ مرکب ہیں نہ مفرد، اگر ان کی جمع بنانی ہو تو لفظ ذو کی جمع بنا کر ان کلمات کی طرف اس کی اضافت کریں گے جیسے: ذو معد یکوب، ذو واتباطشرا۔

بعض ایسے بھی ہیں جن کی جمع جمع مذکر سالم کے وزن پر آتی ہے، اگرچہ اس کی شرطیں ان میں نہیں پائی جاتیں مثلاً ارضون، عالمون، علیون، اهلون، بنون، سنون۔ اسی طرح ہر وہ کلمہ ثلاثی جس کا لام کلمہ حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں تاء لائی گئی ہو اس کی جمع بھی واؤ نون کے ساتھ آتی ہے جیسے عصون، ثبون، میثون۔ جمع عنین، ثبۃ، ماشۃ۔

جمع مؤنث سالم

جمع مؤنث سالم وہ ہے جس کے آخر میں الف اور لمبی تاء زیادہ کی جائے جیسے ثمرات، شجرات اگر مفرد کے آخر میں پہلے ہی سے تاء ہو تو جمع بنانے کے لئے اس کو حذف کر دیتے ہیں جیسے طالبۃ سے طالبات، مسلمۃ سے مسلمات مندرجہ ذیل اسماء سے اس وزن پر جمع آتی ہے (۱) ہر وہ اسم جس کے آخر میں تانیث ہو جیسے ثمرۃ سے ثمرات، شجرۃ سے شجرات البتہ امرأۃ، شاة، قلة، امۃ ملکہ شفعۃ اس سے مستثنیٰ ہیں۔

(۲) ہر وہ اسم جو مؤنث کا علم ہو جیسے زینب سے زینبات، مہربم سے مہربمات۔

(۳) ہر وہ مصدر جرتین سے زائد حرف رکھتا ہو جیسے تعریفات، امتیازات، اختیارات۔

(۴) ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف تانیث ہو خواہ مقصورہ ہو یا ممدودہ جیسے صحرا سے صحراوات، شہر سے شہریات اس لئے مقصورہ و ممدودہ میں الف کی تبدیلی یا بقا کے متعلق وہی صورتیں اختیار کی جائیں گی جن کا ذکر مثنوی میں آچکا ہے۔

علاوہ اس وزن پر جمع آنا سماعی ہے جیسے سماءات، ارضیات، سجدات، خمّامات، سرادقات، شمالات، اُمّہات
رہے الفاظ بھی تو ان میں سے بعض کی جمع تو اسی وزن پر آتی ہے جیسے تلغضات، اور بعض کی جمع مکرراتی ہے جیسے اَساکِل، اَتَنامِل
بطارکتہ۔ کرا دلۃ

تنبیہ :- اگر کوئی کلمہ ثلاثی ہو اور اس کا عین کلمہ صحیح اور وہ فعل یا فعلتہ کے وزن پر ہو تو اس کی جمع مؤنث سالم بناتے وقت
عین کلمہ پر فتح دینا ضروری ہے جیسے ثَمَرَات سے ثَمَرَات، رَحِمَات سے رَحِمَات۔
اور اگر وہ فِعْلٌ یا فَعْلٌ کے وزن پر ہو تو عین کلمہ کو فتح دینا یا ساکن رکھنا یا فاکلمہ کے مثل اس پر حرکت لانا سب کچھ جائز ہے جیسے کَسْرَات
سے کَسْرَات، کَسْرَات، کَسْرَات، حُجَرَات سے حُجَرَات، حُجَرَات، حُجَرَات۔
اگر کلمہ آجوت ہو تو بجا ت جمع عین کلمہ ساکن ہی رہے گا خواہ فاکلمہ پر کوئی بھی حرکت ہو جیسے جَوَزَات سے جَوَزَات، بیعَات سے بیعَات
اور اگر ناقص ہو تو وہ صحیح کا سا حکم رکھتا ہے جیسے رَقِيبَات سے رَقِيبَات، رُقُوعَات سے رُقُوعَات، رُقُوعَات ہاں اگر فاکلمہ مکسور ہو اور لام کلمہ
وادی ہو تو عین کلمہ کو فتح دینا یا ساکن رکھنا تو جائز ہے لیکن فاکلمہ کے مثل حرکت دینا جائز نہیں، جَرَاوَات مثلاً ہے۔
اسی طرح اگر فاکلمہ مضوم ہو اور لام کلمہ یائی ہو تو بھی عین کلمہ کو حرکت میں فاکلمہ کے مثل شکل کرنا جائز نہیں، البتہ فتح دینا بھی روا ہے اور ساکن
رکھنا بھی، اگر کلمہ مدغم ہو تو جمع بناتے وقت فاکلمہ ادغام نہیں ہوگا جیسے فَعْمَات سے فَعْمَات، عِشْرَات سے عِشْرَات۔

جمع مکسر

جمع مکسر تین طریق سے بنائی جاتی ہے: کبھی صرف تبدیلی حرکت سے جیسے اَسَدٌ سے اُسُدٌ، کبھی حرف کے حذف سے جیسے رَسُوْلٌ
سے رُسُلٌ کبھی تخریف کی زیادتی سے جیسے رَجُلٌ سے رِجَالٌ۔
جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع قلت وہ ہے جس سے تین سے دس تک کی تعداد معلوم ہو، اس کے چار وزن ہیں۔
(۱) اَفْعَالٌ جیسے تَطَفُّرٌ سے اَتَطَفَّرُ (۲) اَفْعَالٌ جیسے كَطَسٌ سے اَنفَسٌ (۳) اَفْعَلَةٌ جیسے رَغِيفٌ سے اَرَغِفَةٌ (۴) فَعْلَةٌ جیسے قَتَى سے قَتِيَّةٌ
پھر اَفْعَالٌ و اَفْعَلٌ کی دوسری جمع بھی آتی ہے جس کو جمع منتہی الجموع کہتے ہیں اَفْعَالٌ کی جمع اَفْعَائِلٌ کے وزن پر آتی ہے جیسے اَلْهَادِیُّ کی اَلْهَادِیُّ
اور اَفْعَلٌ کی جمع اَفْعَائِلٌ کے وزن پر جیسے اَصْلَحٌ کی جمع اَصْلَاحٌ گویا منتہی الجموع سے وہ وزن مراد ہے جس میں الف جمع کے بعد کے دو حرف متحرک ہوں
یا اگر تین ہوں تو تین سچیں یا ساکن ہو جیسے مَسَاجِدُ، مَنَایِدُ، یا قَنَادِیْلُ، مَصَابِيْهُ۔
تنبیہ :- جمع قلت پر جب الف لام استغراق کا داخل نہ ہو اس کی اضافت اسی چیز کی طرف ہو جو کثرت پر دلالت کرے تو وہ کثرت کا فائدہ
دیتا ہے، جیسے اَیُّهَا الشُّیُوخُ لَا تَكُونُوا کَا لَفُؤْسِیَّةِ، اِحْفَظُوا اَنْفُسَکُمْ۔
جمع کثرت وہ ہے جو تین سے زیادہ الی غیر النہایہ کے لئے استعمال ہوتی ہے۔
جمع سالم کی ہر دو قسمیں بعض کے نزدیک جمع قلت کے معنی کو مفید ہوتی ہیں اور بعض کے قول پر مطلق جمع کے معنی کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ اظہار قلت و کثرت کے

جمع کثرت کے قیاسی اوزان

(۱) فَعْلٌ جمع فَعْلَةٌ جیسے عَلَبٌ جمع عَلَبَةٌ، صَوْرٌ جمع صُوْرَاتٌ، صُرٌّ جمع صُرَّةٌ۔
(۲) فَعْلٌ جمع فَعْلَةٌ جیسے قَطَعٌ جمع قِطَعَةٌ لیکن کبھی فَعْلَةٌ کی جمع فَعْلٌ بھی آتی ہے جیسے لُحی جمع لُحِیَّةٌ۔ حُلٰی جمع حُلِیَّةٌ
(۳) فَعَالٌ ہر بابی مرد کی جمع جیسے بَلَایِلٌ جمع بَلْبُلٌ، حَنَادِوس جمع حِنْدَس اور خنای مرد و مزید کی جمع بھی جیسے سَفَارِجُ
جمع سَفَرَجِل، حَنَادِوس جمع حِنْدِ دِلِیس۔

- (۴) فَوَاعِلُ ہر اس ثلاثی کی جمع جس کے فاسکے بعد واو یا الف زائد ہو جیسے جَوَاهِرُ، جَمْعُ جَوَاهِرُ، خَوَاتِمُ، جَمْعُ خَوَاتِمِ۔
 (۵) فَعَائِلُ ہر اس مؤنث کی جمع جس کا تیسرا حرف مدہ ہو جیسے صَحَائِفُ، جَمْعُ صَحَائِفَ، رَسَائِلُ، جَمْعُ رَسَائِلَ۔
 (۶) أَفَاعِلُ (تثانیث الہزۃ) کی جمع جیسے أَصَابِعُ، جَمْعُ أَصَابِعِ، أَتَانِمِلُ، جَمْعُ أَتَانِمِلَ، أَجَدَلُ، جَمْعُ أَجَدَلِ۔
 (۷) أَفَاعِلُ أَفْعُولُ اور أَفْعُولُ کی جمع جیسے اسَالِیْبُ، اسَلُوبُ کی جمع اَرَا جِزْ اَرَجُودَہ کی جمع۔
 (۸) فَعَائِلُ ہر اس رباعی کی جمع جس کے حرف آخر سے پہلے مدہ ہو جیسے قَرَاهِیْسُ، جَمْعُ قَرَاهِیْسَ، عَصَافِیْرُ، جَمْعُ عَصَافِیْرَ۔
 (۹) مَفَاعِلُ، مِفْعَلُ اور مِفْعَلَتُ کی جمع جیسے مَبَاضِعُ، جَمْعُ مَبَاضِعَ، مَكَائِسُ، جَمْعُ مَكَائِسَ۔
 (۱۰) مَفَاعِلُ، مِفْعَالُ، مِفْعِلُ، مِفْعُولُ کی جمع جیسے مَفَاتِیْحُ، جَمْعُ مَفَاتِیْحَ، مَسَکِیْنُ، جَمْعُ مَسَکِیْنِ، مَقَادِیْرُ، جَمْعُ مَقَادِیْرَ۔

اسم جمع و شبہ جمع

اسم جمع وہ ہے جو جمع کے معنی دے اور اسی مادہ سے اس کے لئے کوئی عکرونہ ہو جیسے خَيْلٌ، قَوْمٌ، رَهْطٌ، جَبَیْشٌ۔
 شبہ جمع وہ ہے جو جمع کے معنی دے اور اس کے واحد جمع میں تاء سے تمیز ہو جیسے وَرَقٌ کہ اس کا مفرد وسِیقۃ ہے شمس کہ اس کا واحد شمس ہے
 اور اسی قبیل سے وہ جس کے واحد جمع میں یا نسبتی سے فرق واقیاز ہو جیسے الرِّدْمِ رِیْمُوں میں سے ایک المِجُوسِیْ جُیْمُوں میں سے ایک
 البتہ پہلا غیر ذوی العقول کے لئے ہے اور دوسرا ذوی العقول کے لئے۔
 اسم جمع و شبہ جمع ہر دو کی جمع مفردات کے طرز پر آتی ہے جیسے قوم کی جمع اقوام، ثوب کی جمع اثواب، رفقہ کی جمع رفق، نجم کی جمع انجم اور دم کی جمع اروم

صفت

صفت وہ اسم ہے جو کسی ذات کی حالت کو بتائے، اس کی پانچ قسمیں ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اوزان مبالغہ۔

صفت کی تانیث

صفت کی مؤنث بنانے کے لئے اس کے آخر میں تاء لگا دی جاتی ہے جیسے صادق صادقۃ، کاذب کاذبۃ، لیکن وہ صفت جو فعلان یا
 افعال کے وزن پر ہو یا اسم تفضیل ہو اس کی تانیث کے احکام مخصوص ہیں۔
 (۱) جو صیغہ صفت فعلان کے وزن پر ہو اس کی مؤنث فعلی کے وزن پر آتی ہے جیسے عطشان سے عطشی، سکوان سے سکری،
 ظلمان سے ظلماسی مگر بعض کلمات ایسے ہیں کہ ان کی مؤنث تاء ہی کے ساتھ آتی ہے مثلاً الیآن، جلالان، خمسان، یخنان، صوحان
 فوجان، قشوان، مقان، انقران اور بعض ایسے ہیں جن کی مؤنث فعلی کے وزن پر بھی آتی ہے اور تاء کے ساتھ بھی جیسے عطشان سے عطشی اور عطشانۃ
 غمسان سے غمشی اور غمسانۃ۔

(۲) جو صیغہ صفت افعال کے وزن پر ہو اس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آتی ہے جیسے ابیمن سے بیضاء، اسمن سے مسماء
 (۳) اسم تفضیل کے لئے مؤنث کا صیغہ فعلی ہے جیسے اكرم سے کرمی، اصغر سے صغریٰ پھر اگر کلمہ ناقص واوی ہو تو واو کو یاد
 سے بدل دیتے ہیں جیسے احلی سے حلیا، ادفی سے دنیا۔

بعض صفات کے صیغے ایسے بھی ہیں جن میں تکریر و تانیث کا کوئی فرق نہیں، یہ سب ذیل چلیں۔

- (۱) فَعَالَتٌ جیسے رَجُلٌ فَعَالَمَةٌ، اِمْرَاَةٌ فَعَالَمَةٌ۔
 (۲) مِفْعَالٌ جیسے رَجُلٌ مِفْعَالٌ، اِمْرَاَةٌ مِفْعَالٌ اور مِیْقَانَةٌ شَاوِیۃ۔

(۴) فُعَلَاءٌ فَعِيلٌ یعنی فاعل کی جمع ہے، جیسے کرماء، علماء کریم و عالم کی جمع۔
(۵) اَنْفِعَاءٌ فَعِيلٌ کی جمع ہے جو سنا ہفت یا مقتل اللام پر جیسے عتی کی جمع اغنیاء، قوی کی جمع اقویاء، مذکر اسم تفضیل کی جمع سالم اَفْعُلُونَ

کے وزن پر آتی ہے جیسے اعظمون، اکرمون اور جمع مکسر آفَاعِل کے وزن پر جیسے اصاعذر، اکابر۔
 مؤنث اسم تفصیل کی جمع سالم فعلیات کے وزن پر جیسے عظمیات، کرمیات اور جمع مکسر فَعْل کے وزن پر جیسے مَعْر، کَبَر۔
 صیغہ منتہی المجموع کی صرف جمع سالم آتی ہے جیسے ضَوَارِبَات جمع ضَوَارِب، آفَاضِلُون جمع آفَاضِل۔

نسبت

کسی کلمہ آخر میں یا مے مشدود کا کسرہ کے بعد لاحق کرنا تاکہ یہ الحاق مدلول کلمہ کے ساتھ کسی چیز کی وابستگی ظاہر کرے نسبت کہلاتا ہے۔
 جب اسم منسوب الیہ لائی مکسور العین ہو تو بوقت نسبت عین کو فتح دیا جائے گا جیسے فَعِذْ سے فَعِذَاتِ، مَلِک سے مَلِکَاتِ۔
 اور اگر منسوب الیہ رباعی مکسور العین ہو تو افصح ہی صورت ہے کہ اس کے عین پر بدستور کسرہ رہے جیسے مَشْرِق سے مَشْرِقَاتِ۔
 مَغْرِب سے مَغْرِبَاتِ، یَثْرِب سے یَثْرِبَاتِ۔

جس لفظ کے آخر میں تائے تانیث ہو نسبت کے وقت اس کا حذف لازم ہے مثلاً ناصرة کی طرف نسبت میں ناصری کہیں گے جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ اس کی طرف نسبت کرنے کے حسب ذیل قواعد ہیں۔

(۱) الف مقصورہ اگر تیسرے حرف کی جگہ ہو تو بوقت نسبت وہ واؤ سے بدل جاتا ہے جیسے عصا سے عصوات، فتنی سے فتوات
 (۲) اگر الف مقصورہ چوتھا حرف ہو اور اصلی ہو تو پھر بھی اس کی واؤ سے تبدیلی زیادہ تر زیر عمل ہے جیسے مَرْمِی سے مَرْمِیَاتِ اور حذف بھی ہوا ہے جیسے مَرْمِی اور اصلی نہ ہو بلکہ زائد ہو خواہ تانیث کے لئے خواہ الحاق کے لئے تو اس میں مختار صورت حذف کی ہے، یعنی جُھِنَاتِ، ذُخْرَاتِ کہیں گے، اور اس کی تبدیلی واؤ سے بھی جائز ہے مثلاً کہیں جُھِنَاوَاتِ، ذُخْرَاوَاتِ اں الف تانیث کو جب واؤ سے بدل دیں تو اکثر اس سے پہلے الف زائد کر دیتے ہیں جیسے طُوبَاوَاتِ، دُنْیَاوَاتِ۔

(۳) الف مقصورہ اگر ایسے اسم میں واقع ہو جس کا دوسرا حرف متحرک ہو تو وہ حذف ہوتا ہے جیسے بَرْدَانِ سے بَرْدَانَاتِ اسی طرح اگر کلمہ میں پانچویں جگہ ہو تو بھی حذف ہو جاتا ہے جیسے مصطفیٰ سے مَصْطَفَاتِ بعضوں نے یہاں واؤ سے تبدیلی بھی جائز رکھی ہے گویا مَصْطَفَاوَاتِ بھی کہتے ہیں۔
 اگر اسم کے آخر میں الف ممدودہ تانیث کے لئے ہو تو اس کی طرف نسبت کے قواعد:-

(۱) الف ممدودہ تانیث کے لئے ہونے کی صورتیں بوقت نسبت واؤ سے تبدیل ہو جاتا ہے جیسے صفراء سے صَفَرَاوَاتِ۔
 (۲) الف ممدودہ کا ہمزہ اگر اصلی ہو تو بحال خود رہتا ہے جیسے قُرَّاء سے قُرَّائَاتِ، اُبْدَاء سے اُبْدَائَاتِ۔
 (۳) اگر اصلی نہ ہو تو اس کا کھن بھی جائز ہے اور اس کی واؤ سے تبدیلی بھی روا، مثلاً ساء سے رِدَائَاتِ بھی کہہ سکتے ہیں اور رِدَاوَاتِ بھی سَمَاء سے سَمَائَاتِ بھی کہنا روا ہے اور سَمَاوَاتِ بھی۔
 اسم منقوص کی طرف نسبت کرنے کے اصول:-

(۱) یاد اگر تیسری جگہ ہو تو اس کو واؤ سے بدل کر اس کے ماقبل فتح دیتے ہیں جیسے عَمِی سے عَمِیَاتِ، حَتِی سے حَتِیَاتِ۔
 (۲) اگر چوتھی جگہ ہو تو حذف بھی جائز ہے جیسے قَاصِن و مَاصِن سے قَاصِنَاتِ و مَاصِنَاتِ اور واؤ سے تبدیلی بھی، مگر اس صورت میں ماقبل کو فتح ضرور دیا جائے گا، یعنی کہا جاوے گا

(۳) اگر پانچویں جگہ ہو تو حذف کرنا ضروری ہے جیسے مُسْتَعْلٰی سے مُسْتَعْلِیَاتِ، مُعْتَدِی سے مُعْتَدِیَاتِ اگر کوئی کلمہ فیصل کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں حرف صحیح ہو تو اس کا وزن اپنی حالت پر باقی رہتا ہے جیسے مَسِیْح سے مَسِیْحَاتِ، صَلِیْب سے صَلِیْبَاتِ، حَذِیْم سے حَذِیْمَاتِ اگر وہ کلمہ ناقص ہے تو ایک یا دو حذف کر کے دوسرے کو واؤ سے بدل دیں گے اور ماقبل کو فتح دیں گے جیسے عَنٰی سے عَنٰیَاتِ، عَلٰی سے عَلٰیَاتِ عَلَوٰی اگر فعلیہ کے وزن پر ہو تو مضاعف و مقل نہ ہونے کی صورت میں یاد کو حذف کر کے ماقبل کو فتح دیا جائے گا مثلاً مَدِیْنَة کی طرف نسبت کرنے میں

کی طرف نسبت کرنے میں مَدَنی اور قَرْصِیَّة کی طرف نسبت کرنے میں قَرْصِیَّہ کہیں گے۔ البتہ بعض جگہ یاہ کا باقی رکھنا شاذ ہے جیسے طَبِیعی، سَلِیْقِی، اگر مَضَاعِف یا مَقْصَل العین ہو تو کچھ حذف نہیں ہوتا، مثلاً طَبِیْلَہ، عَرَبِیَّة کی طرف نسبت کرنے میں کہیں گے طَبِیْلَہ، عَرَبِیَّة، قَعِیْل و قَعِیْلَہ کا وہ علم ہے جو قَعِیْل و قَعِیْلَہ کا بیان ہوا جیسے عَقِیْل سے عَقِیْلَی، قَصَی سے قَصَوِی، قَلِیْلَہ سے قَلِیْلَی، اُمَیْمَہ سے اُمَیْمَی۔

اگر کسی اسم کے آخر میں چوتھی یا پانچویں جگہ واؤ ہو اور اس سے پہلے ضم تہ بوقت نسبت واؤ حذف کر دیا جائے گا جیسے قَلَسُوۃ سے قَلَسِی، تَرْقُوۃ سے تَرْقِی، وَرْد واؤ باقی رہے گا جیسے عَدُوۃ سے عَدَوِی، دَلُو سے دَلَوِی۔

اگر کسی اسم کے آخر میں یا مشدود ہو اور اس سے پہلے دو سے زیادہ حرف ہوں تو یاہ کا حذف کرنا ضروری ہے جیسے شافعِی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شافعِی اور اسکندریہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسکندری کہتے ہیں۔

اگر یاہ سے پہلے ایک ہی حرف ہو جیسے حَتّی تو دوسرے حرف کو فتح دے کر میرے کو واؤ سے بدل دینا واجب ہوتا ہے جیسے حَتّی سے حَتِی۔

اگر دوسری یا دواؤ سے بدلی ہوئی ہو تو بوقت نسبت پہر واؤ ہر جائے گی، جیسے طَحّی سے طَحَوِی۔

اگر کوئی کلمہ محذوف الآخر ہو اور صرف دو حرف باقی رہے ہوں، تو بحالت نسبت حرف محذوف پھر لوٹ آئے گا جیسے اَبّ وَاخِر سے اَبَوِی وَاخِرِی لفظ اُخْت وِبِنت کی طرف نسبت کرنے میں تاء کوئی رکھا جاتا ہے، جیسے اُخْتِی وِبِنتِی بعض تاء کو حذف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اُخَوِی وِبِنَوِی اور ابنتہ کی نسبت میں کہا جاتا ہے ابنتِی وِبِنَوِی۔

یَت و دَم الفاظ میں محذوف کو لوٹانا نصیح تر ہے، گویا کہا جائے گا یَدِی و دَمِی اور بغیر واؤ کے نسبت کرنے کو بھی جائز رکھا ہے یعنی کہہ جائے گا یَدِی، دَمِی۔

اگر کسی کلمہ میں محذوف کے عوض میں ہمزہ دل نہ ہو جیسے اَبْن و اَسْم میں تو محذوف کو محذوف کا لوٹانا جائز ہے مثلاً بِنَوِی و دَمِی کہہ سکتے ہیں اور ابنتِی و اُسْمِی کہنا بھی اسی طرح روا رکھا گیا ہے۔

حذف وفت کے عوض تاء ثابت دینی ہے، تو بوقت نسبت اس کو حذف کر کے محذوف لایا جائے گا جیسے سَنَۃ سے سَنَوِی، لَعْنۃ سے لَعَوِی اور ذَمَۃ سے ذَمَوِی، صِلَۃ سے وِصَلِی۔

اگر تشبیر و جمع کی طرف نسبت مقصود ہو تو اُن کو مفرد کی شکل میں لاکر نسبت کی جائے گی، جیسے عراقِین سے عراقِی، مسلمِین سے مسلمِی یہی حال اُن کا ہے جو تشبیر و جمع کے ساتھ لاحق ہیں جیسے اَشْجِیْن سے اَشْجِی و ثَنَوِی۔ عَشْرِیْن سے عَشْرِی، اَرْبَعِیْن سے اَرْبَعِی

اگر ایسی جمعیں ہیں جن کا مفرد نہیں جیسے اَبَا بِل و عِبَادِیْد یا اگر مفرد ہے تو اسی لفظ سے نہیں، جیسے نَسَائِہ تو ہر دو حالت میں بوقت نسبت اُن کو اپنے حال پر رکھا جائے گا جیسے مَخَاطِرِی، مَنَاجِذِی، نَسَائِی

بعض صغیرین کے نزدیک جمع مکسر کی طرف نسبت کرنے میں اس کو بحال خود رکھا جائے گا مثلاً مَلَائِکَۃ سے مَلَائِکِی، مَلَوَک سے مَلَوِکِی کِنَاسِی سے کِنَاسِی، اسی طرح جمع مکسر جو علم ہو اس کی طرف نسبت کرتے وقت اس کو بحال خود رکھا جائے گا، مفرد کی طرف اُس کو نہیں لوٹائیں گے جیسے اَبْدَاس سے اَبْدَاری، اَنْصَار سے اَنْصَارِی، اَهْوَاز سے اَهْوَازِی

مرکب بنائی میں نسبت کے وقت اُس کا آخری جزو حذف کر کے اس کے جزو اول کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے بَعْلِبْک و مَعْدِیْکِی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں بَعْلِی و مَعْدِی کبھی بغیر حذف کئے ہوئے پورے مرکب کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ بَعْلِکِی، مَعْدِیْکِی

مرکب اضافی میں کہیں تو جزو اول کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے اَمْرَءُ القِیْس سے اَمْرِی، دِیْرُ القَمَر سے دِیْرِی اور جزو آخر کی طرف جیسے عِبْدُ الاشْهَل سے اَشْهَلِی، اَبُو بَکْر سے بَکْرِی، عِبْدُ مَنَاف سے مَنَافِی کبھی پورے مرکب اضافی کی طرف نسبت کرتے ہیں

جیسے عین ابل سے عین ابلّی، وادی آشی سے وادی آشی، عین حور سے عین حوری۔
مرکب اسادی میں نسبت جز اول کی طرف کی جاتی ہے، جز ثانی کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے تَابَطْ شَرًّا سے تَابَطْ، دَرَجَاتِ سے دَرَجِی
ذیل میں حرکات تہجی کی ترتیب سے اُن اسماء کی فہرست دی جاتی ہے جو قواعد نسبت کے خلاف مستعمل ہیں۔

عَبْدِی	بنی عبیدہ	سَرَبَاتِی	سرب	اُنَاثِی	آنف کبیر
عِشِی	عبد شمس	سَرُجَاتِی	سرقبة عطیمة	اُمُو	اُمیّة
عَبْدِی	عبدالدار	سَرِاجِی	رامهرمز	یَدُو	بادیّة
عَبْقِی	عبد قیس	سَرْدِی	سردینہ	بَجَرِی	بجرین
عَبْدِی	عبد اللہ	سَرُوْحَاتِی	سروح	بَهَرِی	بھراء
فَقِی	فقم کنانہ	سَرُوْحَاتِی	سروحاء	تَهَامِی	تھامہ
فرہودی	فراہید	سَرَاوِی	سارے	تِیْمِی	تیم اللات
قوئی	قویم	سَرَبِی	سرباب	ثَقِی	ثقیف
قَزَشِی	قزیش	سَهْلِی	سہل	جَمَانِی	جمہ عطیمة
کُنِی	کنت	سَلِی	سلیقہ	جُدِی	جدیمہ
لِجِی	لجیہ عطیمة	سَلِی	سلیمة الازد	جَلُو	جلولاء
مِلِی	ملیخزاعہ	سَلِی	سلیم	حَبِی	بنی الحبلی
مَرُوِی	مرو الشاھجانی	شَامِ	شام	حَرُوِی	حروماء
مَرَقِی	امرؤ القیس	شَعَرِی	شعر کشیر	حَرَمِی	حرمین
ہَاجِرِی	ہاجر	صَدْرِی	صدر کبیر	حَضَرِی	حضرموت
ہَذِلِی	ہذیل	صَنْعِی	صنعاء	خَزِی	خزینہ
نَبِی	نباط	طَبِی	طبیعة	دَهْی	دھر
نَصْرِی	ناصرہ	طِی	طیّ	دِیْرِی	دیر
یَمِی	یمین	عَمِی	عمیرہ کلب	دَاِی	داسما

تصغیر

بعض اظہار قلت یا حقارت اسم میں ایک خاص تغیر کرنے کو تصغیر کہتے ہیں۔
مثلاً ثِیْرُ سے تصغیر ثَعِیْلُ کے وزن پر آتی ہے جیسے عَبْدُ سے عُبَیْدُ، سَرَجُلُ سے سَرَجِیْلُ۔
مثلاً ثِیْرُ مزید رباعی اور خماسی سے جب کہ چوتھا حرف مد نہ ہو تو تصغیر ثَعِیْلُ کے وزن پر آتی ہے، جیسے جَعْفَرُ سے جَعْفِیْرُ، سَقَرُخِلُ سے سَقِیْرُج۔

اگر مدہ ہو تو ثَعِیْلُ کے وزن پر جیسے مَضْرَابُ سے مَضْیَرِیْبُ، قِرْطَاسُ سے قُرْیَطِیْسُ اگر کم کے آخر میں تاؤ تانیث ہو
یا الف نون زائد تان تو علامت تانیث یا الف نون سے ملحق جو حرف ہو گا وہ جو کٹوں اپنی پہلی حالت پر رہے گا جیسے ثَمَرَةُ سے ثَمِیْرَةُ، بُشْرَى
سے بُشْیْرَى، سَمَاءُ سے سَمِیْرَاءُ، سَكْرَانُ سے سَكِیْرَانُ، غَضَبَانُ سے غَضِیْبَانُ۔

اگر مؤنث معنوی ثلاثی ہو تو تصغیر میں ۴ ظاہر کی جاتی ہے، جیسے اَرْض سے اَرْضِيَّة، شمس سے شَمْسِيَّة، البتہ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ التباس کا خطرہ نہ ہو مثلاً خمس کی جب تصغیر بنائی ہوگی جو معدود مؤنث کے لئے ہے تو خُمَيْس کہیں گے نہ خُمَيْسَة و نہ خُمِسَة کی تصغیر کا شبہ ہوگا جو معدود مذکر کے لئے ہے۔

اگر کسی کلمہ میں حرف علت ہو اور تعلیل ہو چکی ہو تو تصغیر بناتے وقت وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ مثلاً يَاب کی تصغیر يَوِيَّب اور نَاب کی تصغیر نُيَيْب ہوگی، کیوں کہ الف پہلے میں واؤ سے اور دوسرے میں یاؤ سے بدلا ہوا ہے، یاب وجر کہ ان کی جمعیں ابواب وایناب ہیں اور کھلا اصول ہے کہ جمع تکمیل اسماء کو اصل کی جانب لوٹا لاتی ہے، ہاں اگر الف کی اصلیت کا پتہ نہ لگ سکے کہ وہ واؤ سے بدلا ہوا ہے یا یاؤ سے تو ماقبل ضم کا اعتبار کرتے ہوئے تصغیر میں واؤ لاتے ہیں، جیسے عَاج سے عَوَاج یہی حکم اس واؤ یا یاؤ کا ہے جو بدلے ہوئے ہوں، جیسے مَوْس سے مَوِيْس، مِيْزَان سے مَوِيْزَان، البتہ عیند کی تصغیر عُيَيْد شاذ ہے، کیونکہ قیاس عَوِيْد کو چاہتا ہے، اگر واؤ اور یاؤ بدلے ہوئے نہ ہوں تو ان میں تغیر نہ ہوگا، جیسے سَوْس سے سَوِيْر، بَيْت سے بَيِيْت، اگر اسم صغیر کا دوسرا حرف الف زائد ہو جیسے خَالِد و ضَارِب تو وہ اجماعاً واؤ سے بدل جائے گا جیسے خَالِد سے خَوِيْلِد، ضَارِب سے ضَوِيْرِب۔

اگر اسم صغیر کا تیسرا حرف الف ہو یا واؤ تو اس کو یاؤ سے بدل کر یاؤ تصغیر میں مدغم کر دیتے ہیں، جیسے عَصَا سے عُصَى، دَلْو سے دَلْوَى، عَجْوَن سے عَجْوِيْن، كِتَاب سے كُتَيْب، اِكْرَاد و اِكْرَام کلمہ نہ ہو تو اس کو یاؤ سے بدلنا یا باقی رکھنا دونوں صورتیں جائز ہیں جیسے جَدَّوْل سے جَدَّيْل یا جَدَّيْوْل، اَدْوَس سے اَدْوِيْر یا اَدْوِيْس۔ اگر تیسرا حرف یاؤ ہو تو وہ یاؤ تصغیر میں مدغم ہو جاتی ہے جیسے، نَصِيْر سے نَصِيْر، جَمِيْل سے جَمِيْل، اِجْرَ تَحَارِف و اِجْرَ تَحَارِف تو ان کو یاؤ سے بدل دیا جاتا ہے جیسے عَصْفُوْر سے عَصْفِيْر۔ اور سُلْطَان سے سُلْطِيْن۔

اگر اسم تفصیل ناقص ہو جیسے اَحْلَى و اشْهَى تو تصغیر کے مابعد فتح ہوگا جیسے هُوَ اَحْيَلُ مِنَ الْعَسَل۔

اگر کسی اسم میں آخر سے کچھ حذف ہو کر دو حرف بچ رہے ہوں تو تصغیر میں حذف شدہ حرف واپس آئے گا جیسے اَبْ سے اُبَّتْ، اَخْ سے اُخَّتْ، دَمْ سے دُمَّتْ، اگر حذف شدہ حرف کے عوض شروع میں ہمزہ وصل کا اضافہ ہو ہو جیسے ابن میں تو تصغیر میں عوض حذف ہوگا، اور محذوف لوٹ آئے گا، جیسے ابن سے بُنَّتْ۔

اگر محذوف حرف کے عوض میں ہمزہ نہ ہو مگر تاء ہو تو اس کی تصغیر میں عوض باقی رہے گا اور محذوف لوٹے گا جیسے زَيْنَة سے وَزَيْنَة اور عِدَة سے وَعِيْدَة، اُخْت و يَنْت کی تصغیر اُخْيَة و بُنْيَة۔

مشقی اور جمع سالم کی تصغیر اس طرح آئے گی کہ مثلاً مُؤْمِنَان کی تصغیر مُؤْمِنِيْن، مُؤْمِنُونَ کی مُؤْمِنِيُون، مُؤْمِنَات کی مُؤْمِنَات اور جمع ثقات کی اس طرح کہ مثلاً اَرْغِفَة کی تصغیر اَرْغِفَة ہوگی۔

جمع کثرت کی تصغیر بنانے کا اصول یہ ہے کہ پہلے اس کو مفرد کی شکل میں لا کر اس کی تصغیر بنالیں، پھر کوؤن لگا کر اس کی جمع بنالیں، چجب کہ مذکر عاقل ہو، جیسے غُلْمَان کہ یہ جمع ہے غلام کی، غلام کی تصغیر غُلْمِمْ ہوئی، اس میں واؤن لگا کر غُلْمِيُون کر لیا، پس یہی غلمان کی تصغیر ہے، اسی نہج و طریق پر ضمراء کی تصغیر شَوَيْعِيُون ہوگی۔

اگر مذکر لایققل یا مؤنث ہو تو آخر اِلْت نام کی زیادتی کی جائے گی، جیسے جَوَادِ جمع جَارِيَة کی تصغیر جَوِيْرِيَات، اَسْأَهْم جمع اَسْأَهْم کی تصغیر اَسْأَهْمَات آتی ہے۔

تنبیہ :- ذیل کے وہ الفاظ ہیں جن کی تصغیر خلاف قیاس آتی ہے، جیسے :-

بَحْر کی تصغیر اُبْحِيْج، اِنْسَان کی اُنْيَسِيَان، رَجُل کی رُوْجُل، اَصْل کی اُصِيْلَال، عَشِيَّة کی عَشِيَّة، اَصْبِيَة کی اُصْبِيَّة، غَلْمَة کی اُغْلَمَة، اِطْرَاقِيْن، دَرَج، حَرِيْب، نَعِيْل، عُزْلِيْس، دُوِيْد، اَلْقِيَاک کا تقاضا تھا کہ ان کے آخر میں تاء ہوتی۔

مصغر اگر مرکب اضافی ہو تو اس کے پہلے جز کی تصغیر ہوگی، دوسرے جز کو اپنی حالت پر چھوڑ جائے گا جیسے عَبْدُ اللّٰہ کی تصغیر عَبْدُ اللّٰہ ہوگی مرکب بنائی کے ساتھ بھی یہی اصول بتا جائے گا جیسے مَعْدِیْکُرب کی تصغیر مَعْدِیْکُرب اور حَضَر مَوْت کی حَضَر مَوْت، نَقِیْطُوہ کی خَمْسَۃَ عَشْرِ کی خَمْسَۃَ عَشْرِ ہوگی، البتہ مرکب اسنادی جیسے تابط شراً کی تصغیر نہیں آتی۔

ہمزہ کے لکھنے کے اصول

ہمزہ جب شروع کلمہ میں آتا ہے الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے اسماء، اکواہ اور اگر ابتدا میں آئے اور کسی حرف کے ساتھ متصل ہو تو بھی الف ہی کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسے باجمل ولا فضل مگر لَئِنْ و لَئِنْ میں اس کی وہی ہیئت ہے جو وسط کلمہ میں ہوتی ہے اور یہ کثرت استعمال کے باعث ہے۔

اگر ہمزہ وصل بعد فاء یا واؤ کے واقع ہو تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، بشرطیکہ اس کے بعد بھی ہمزہ ہو جیسے فَاَتَتْنِیْ، وَاَذِنَ لِی اگر ہمزہ درمیان میں واقع ہو اور ساکن ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے لکھا جائے گا، جیسے بَاسٌ، یُوسٌ، بَیْسٌ اور جب ہمزہ وصل کے بعد بلا ہوا ہو، پھر انشاء کے کلام میں اصل کی طرف لوٹا دیا گیا ہو تو وہ اس حرف کی شکل میں لکھا جائے گا جس کی طرف وہ بلا لگے جیسے یَارَجُلِ اسْتَنْ اور هَذَا الَّذِیْ او تَمْنَتْ عَلَیْہِ۔

ہمزہ متحرک درمیان میں آنے والا اپنی حرکت کے موافق حرف کی شکل میں لکھا جائے گا چاہے اس سے پہلے ساکن ہو یا متحرک جیسے لَوْہُ، سَوَّفٌ، سَأَلَ اگر مفتوح ہو اور بعد ضم یا کسرہ کے واقع ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے سَوَّالٌ، رَثَالٌ، مَوْنَتْ اگر ہمزہ الف اور یا کے درمیان واقع ہو تو اس کو ہمزہ اور یا دونوں کی صورت میں لکھا جاتا ہے جیسے بَقَاءٌ یا بَقَائِیٌّ، رَاعِیٌّ یا رَاعِیٌّ۔ اگر ہمزہ الف اور ضمائر میں یا کے علاوہ کسی اور کے درمیان واقع ہو اور مکسور یا مضموں ہو تو اپنی حرکت کے موافق حرف کی شکل میں لکھا جائے گا اور مفتوح ہو تو ہمزہ کی صورت میں جیسے بَقَائِیٌّ - بَقَائِیٌّ بَقَاءٌ۔

اگر ہمزہ کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو تو ہمزہ کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے جُزْءٌ، شَئٌ، فَنَیٌّ اور اگر ما قبل متحرک ہو تو اس کی حرکت کے موافق حرف کی شکل میں لکھا جائے گا جیسے جُزْءٌ، شَئٌ، فَنَیٌّ۔ اگر ہمزہ طرف میں واقع ہو اور اس کے ساتھ تانہ تانیث لاحق ہو اور ہمزہ سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو ہمزہ الف کی شکل میں لکھا جائے گا جیسے نَشَاۃٌ اور اگر متحرک ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے فِیۃٌ، لَوْ لَوْۃٌ، اگر ما قبل معتدل ہو تو یا کے بعد یا کی شکل میں اور الف اور واؤ کے بعد ہمزہ کی صورت میں لکھا جائے گا، جیسے خَطِیۃٌ، بَرِیۃٌ، قَرَاءۃٌ، صَلَۃٌ، سَوۃٌ، سَوۃٌ۔

ابدال کے قواعد

ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو رکھنے کا نام ابدال ہے، ذیل میں وہ حروف درج ہیں جو کسی حرف سے بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔

و - الف جب ضمہ کے بعد واقع ہو تو وہ واؤ سے بدل جاتا ہے جیسے ضَارِبٌ سے مَحْمُولٌ، قَاتِلٌ سے قَتَلٌ، یَاۤءٌ ساکن جب ضمہ کے بعد آئے تو وہ واؤ سے بدل جاتی ہے جیسے آتَقَنَ سے مُؤَقِّنٌ، أَلْبَسَ سے مُؤَسِّرٌ۔

د - واؤ یا یا جب متحرک ہوں اور اُن کا ما قبل مفتوح ہو تو وہ الف سے بدل جاتے ہیں جیسے قَالَ، عَزَّ، أَبَاعَ، دَحَى۔ لیکن اس قاعدہ کے لئے یہ شرائط ہیں کہ یہ واؤ، یا، فاء کلمہ کی جگہ نہ ہوں، مدہ زائدہ سے پہلے الف تشنیہ سے پہلے اور یا مشدود اور نون تاکید سے پہلے نہ ہوں، ناقص کے عین کلمہ کی جگہ نہ ہوں جس کلمہ میں یہ واقع ہوں وہ فعلان و فعلی کے وزن پر نہ ہو اور نیز اسے لفظ کے ہم معنی نہ ہوں جس میں تعلیل نہیں ہوتی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

= ۱ =

(۱)

الْاَلِفُ، الف کی دو قسمیں ہیں ساکن و متحرک الف ساکن کو "حروف لین" کہتے ہیں جیسے قائمیں، الف متحرک کا دو سرانام ہمزہ ہے، ہمزہ مختلف معانی کے لئے آتا ہے۔

(۱) استغفار کے لئے جیسے اَقْرَأْتُ دیکھتے پڑھا، اَمَّا قَدْ اَتَتْ يَا اَقْلَمُ نَقْرًا؟ کیا تو نے نہیں پڑھا۔ اَفِي الْبَيْتِ اَخُوكَ؟ کیا گھر میں تیرا بھائی ہے۔

(۲) نذر قریب کے لئے جیسے اَزِيدُ اَقِيلُ اے

زید، اَزِيدُ اذهب لے زید جا۔

(۳) تسویر کے لئے، یہ اصولاً داہن واقع ہوتا ہے جمال، جملہ کو جس پردہ داخل ہوا ہے مصد میں تبدیل کیا جائے جیسے لَا اُبَالِي اَتَمَّتْ اَهْرَقَدَتْ۔ سوائے عَلَى قِيَامِكَ وَ قَعُودِكَ۔ میں تیرے کھڑے ہونے یا بیٹھے کی پروا نہیں کرتا یعنی یہ دونوں سیر نزدیکی برابر ہیں، یا مثلاً اَتَذَرْنَهُمْ اَهْلَكَ تَذَرُهُم یعنی آپ کا اُن کو ڈرانا اور نہ ڈرانا ہر دو برابر ہیں۔

حرف نذر الجید کے لئے یا جریعہ کے زمرہ میں

شمار ہوتا ہے، جیسے سونے والا اور غافل۔

آب۔ ماہ اگست، شمسی سال کا اٹھواں مہینہ جو

۳۱ دن کا ہوتا ہے۔

اب بن، اَبَادُ اَبَابًا وَاِبَابَةً، الیہ

مشتاق ہونا، چاہنا، خواہش مند ہونا۔

آب۔ (ض، ن) اَبِيدُ وَاَبَادُ اِبَابَةً۔

آباد ہونا، تیار ہونا، دایم آبادی کے

قصداً، طرح قصداً کرنا، کسی کے ارادہ پر چلنا، کسی

کی روش کو اپنانا۔ ییدا الی السیف

تلاش سونٹنے کے لئے ہاتھ بڑھانا۔

آب۔ چھینا چلانا۔

آب۔ (ض، ن) اَبِيدُ وَاَبَادُ اِبَابَةً۔

آب۔ (ض، ن) اَبِيدُ وَاَبَادُ اِبَابَةً۔

آب۔ (ض، ن) اَبِيدُ وَاَبَادُ اِبَابَةً۔

آب۔ (ض، ن) اَبِيدُ وَاَبَادُ اِبَابَةً۔

آب۔ (ض، ن) اَبِيدُ وَاَبَادُ اِبَابَةً۔

چراگاہ، ج، اَوْبُت

الْاَبَابُ۔ پانی، سراب

الْاَبَابُ۔ بڑا سیلاب، موج دریا۔

اباہ یا یاہ، بالسهم تیر سے مارنا۔

آبَت (ن، ض) وَاَبَت (س) اَبَتًا وَاَبُوْنَا

النهار الیوم دن کا سخت گرم ہونا،

وَاَبَت وَاَبَت سخت گرم (دن)

تَابَت۔ الجمر۔ انکار سے کا بھڑکنا، تیر ہونا

وَحَلَا۔

آبَت الغضب غصہ کی تیزی، غصہ کی تندی

آبَت۔ د۔ علیہ (ض) آبَت بادشاہ کے

حضور میں برا بھلا کہنا، غیبت کرنا۔ بدگوئی کرنا

آبَت (س) آبَت۔ اونٹ کا دودھ پنی کر

مدہوش سا ہوجانا۔

الْاَبَت۔ خوشی میں اتراتے ہوئے چلنے والا۔

اگر کر چلنے والا۔

آبَجَد۔ لغت عرب میں اُن آٹھ شہر کلمات

کا پہلا کلمہ جن میں صرف ہجا جمع کر دیئے گئے

ہیں اور وہ کل یہ ہیں۔ ابجد، ہوز،

حطی، مکین، سقفس، قرشت، ثخن، صغف

حروف کی اس ترتیب میں حساب جمل کی

رعایت رکھی گئی ہے، اور اکثر تاریخ انہی

کے لحاظ سے نکالی جاتی ہے، ان میں عدد کا

شمار اس طرح رکھا گیا ہے کہ پہلے اکائیاں

ہیں، پھر دہائیاں، پھر سینکڑے اور ان کے

بعد ہزار۔

آبَد (ض، ن) اَبُوْدًا بالکان کسی جگہ ٹھہرنا، اقامت

کرنا۔ الشمرایہ مشکل اور غریب الفاظ

لانا جن کے معنی کا تیر نہ لگے۔

آبَد (ض، ن) اَبُوْدًا الحیوان جنگلی ہونا، وحشی

ہونا

آبَد (س) اَبَدًا وحشی اور جنگلی ہونا۔ علیہ

غضب ناک ہونا، غصہ ہونا

آبَد۔ ہمیشہ ٹھہرنا اور ہمیشہ رکھنا

تَابَت ابدی ہونا۔ وحشی اور جنگلی ہونا۔

الکان مکان کا ویران اور غیر آباد ہونا

جنگلی جانوروں کا مسکن اور چراگاہ بننا۔

الْاَبَد۔ زمانہ، ج۔ آباد و اَبُوْد اَزلی،

قدیم، ہمیشہ رہنے والا۔ کہا جاتا ہے "لا ایتہ

ابد الابدین والابدین وابد الابد و

الابد وابد یعنی میں اس کے پاس کبھی نہیں لوٹوں گا

آبَد۔ ظرف زمان ہے جو مستقبل میں نفی واجب

کی تاکید کے لئے آتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے

لَا اَفْعَلُهُ اَبَدًا میں اس کو ہرگز نہیں کروں

گا۔ یا اَفْعَلُهُ اَبَدًا میں اس کو ضرور کروں گا

الْاَبَد کا۔ وہ بڑی مصیبت و آفت جس سے

انسان گھبرائے۔ وہ مصیبت جس کا ذکر ہمیشہ

رہے، وحشی، عجیب و نادر شے۔ ج۔

آوَابِد وَاَبَت

آوَابِد۔ وہ بڑے ہو موسم سرما و گرمیاں ایک

ہی جگہ رہیں، گویا قاطع کی ضد۔

آوَابِد الشعر جس کی ندرت میں مثال نہ مل سکے

الْاَبِد وَاَلْاَبَد۔ من امیۃ او اتان

ہر سال جنسنے والی لونڈی یا گدھی۔

الْاَبِد می۔ جس کی انتہا نہ ہو۔

الْاَبِد یَت۔ دوام، جس کی انتہا نہ ہو، آخرت

آبَد (ن، ض) اَبُوْدًا اَبَادُ الْعَرَبُ فَلَانَا

بچھو کسی کو ڈسنا۔ کا غیبت کرنا

کھانے میں کسی کو سوئی کھانا، ہلاک کرنا۔

الزَّرْع: اصلاح کرنا، گاجھا دینا، قلم لگانا

اِسْتَبَر۔ البتہ کنواں کھودنا

الْاَبَرۃ۔ کسی کیڑے مثلاً بچھو یا کھی کا ڈنگ

جس سے ڈرتی ہے، کپڑا سینے کی سوئی، پچھلی۔

اِبْرۃ الْقَرْن۔ سینک کا سرا ج، اِبْرۃ

جے جس کی کڑی سخت دسیا ہوتی ہے۔
آبَہ (ف) آبھا۔ نہ سمجھنا، نہ جاننا، لا
یُؤْبَہ کہ اس کی طرف توجہ و التفات نہیں کی
 جاتی۔

آبَہ۔ خبردار کرنا، آگاہ کرنا، سمجھانا
تَابَہ علیہ۔ تکبر کرنا، بڑا اپنا بن کر اپنے
 کو کسی چیز سے بالا و برتر سمجھنا۔
الْأَبْہَہ و **الْأَبْہَہ**۔ بڑائی، تکبر، نخوت
آبَان، اباؤۃ و ابؤۃ و ابؤۃ باب ہونا، یتیم
 یتیم کی پرورش کرنا، کہا جاتا ہے "ابوتہ
 وامتہ" یعنی میں اس کے لئے بمنزلہ ماں باپ
 کے ہو گیا۔

آبَی فلاتا کسی کو کہنا کہ میں اپنے باپ کو قہر
 پر فدا کرتا ہوں۔
تَابَی فلاتا کسی کو باپ بنانا۔

الْأَب۔ باپ، جو کسی چیز کی ایجاد یا اصلاح کا
 سبب ہو۔ اس کا اعراب حالت رفع میں
 واؤ کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے
 ساتھ اور حالت جر میں یاء کے ساتھ جیسے
 کہتے ہیں:- **جَاءَ أَبُوکَ**، **رَأَيْتُ أَبَاکَ**
وَمَرَرْتُ بِأَبِیکَ اور منادی ہونے کی صورت
 میں کہا جاتا ہے "یا ابی ویا آبت"
 ج:- **آبَاءُ** و **أَبُونَ**۔

أَبُو ایسا۔ اتھ منہ دھونے کی چیز جیسے
 وغیرہ۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ اونٹ۔ **أَبُو** **أَبُو**
 گدھ۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ چیتا۔ **أَبُو** **أَبُو**
 گدھ۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ میزبان۔ **أَبُو** **أَبُو**
 پھل۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ کنیت حضرت آدم علیہ السلام
أَبُو **أَبُو**۔ سرکر۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ دسترخوان
أَبُو **أَبُو**۔ ہڈی۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ سجو۔
أَبُو **أَبُو**۔ گبر ملا۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ ترکاری
أَبُو **أَبُو**۔ بھنا ہوا بکری کا بچہ۔
أَبُو **أَبُو**۔ لقلق۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ گرگ۔
أَبُو **أَبُو**۔ کومری۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ کتا۔
أَبُو **أَبُو**۔ گوشت۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ برفوں

أَبُو **أَبُو**۔ قیم کا حلو۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ بھڑکا
أَبُو **أَبُو**۔ کڑا۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ گدھ۔
أَبُو **أَبُو**۔ مرغ۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ سجو۔
أَبُو **أَبُو**۔ شوہر۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ بھڑکا
أَبُو **أَبُو**۔ سور۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ فالودہ
أَبُو **أَبُو**۔ گدھا۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ بڑی
أَبُو **أَبُو**۔ نیک۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ بلی۔
أَبُو **أَبُو**۔ کنیت ابی۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ گرگ۔
أَبُو **أَبُو**۔ نر۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ باز۔
أَبُو **أَبُو**۔ شیر۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ بھوکا، بھوکا
أَبُو **أَبُو**۔ میزبان۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ بھڑکا۔
أَبُو **أَبُو**۔ شیطان۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ قاضی کا پیادہ
أَبُو **أَبُو**۔ گدھ۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ چوٹی
أَبُو **أَبُو**۔ پھلی۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ چیتا۔
أَبُو **أَبُو**۔ مرغ۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ ردی۔
أَبُو **أَبُو**۔ عقاب، اور بقول ازنی ہرن
أَبُو **أَبُو**۔ برینڈک۔ **أَبُو** **أَبُو**۔ ملکوت
أَبُو **أَبُو**۔ مرغ کہا جاتا ہے **أَبُو** **أَبُو**
وَلَا أَبَاکَ۔ **وَلَا أَبَاکَ** یعنی تیرا باپ
 مرے جیسے مدح و ذم دونوں موقعوں پر
 استعمال ہوتے ہیں، اس کے لئے بھی جی کہ باپ
 ہے اور اس کے لئے بھی جس کا باپ نہیں۔
یَا أَبَاکَ۔ یعنی میرا باپ تجھ پر فدا ہو۔
أَبَاکَ۔ عیسائیوں کے نزدیک اقوام اول
 جس کو باپ کہتے ہیں۔

أَبَاکَ (ف) **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ** و **تَابَکَ**۔ الشی
 ناپسند کرنا، مکروہ جاننا، کسی چیز سے ناخوش
 ہونا، صفت: آپ ج:- **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ**
أَبَاکَ علیہ و **تَابَکَ**۔ باز رہنا، رکنا، خود دار ہونا
أَبَاکَ **أَبَاکَ**۔ الشی: خود دار بنانا
أَبَاکَ۔ نفرت کرنے والا، کمینہ باتوں سے اپنے
 آپ کو بلند رکھنے والا۔ **رَجُلٌ أَبَاکَ**۔
 خود دار مرد۔

تَابَکَ و **أَبَاکَ**۔ بے استین والی قمیص پہنا
أَبَاکَ۔ بے استین والی قمیص۔ ج:-
أَبَاکَ و **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ**۔

أَبَاکَ **أَبَاکَ**۔ جڑ کا چھلکا۔
أَبَاکَ۔ امیر، سردار، یہ لفظ واصل بادشاہوں
 کی اولاد کے انا بیفوں پر بولا جاتا تھا اور
 انہیں کو اس نام سے خطاب کرتے تھے۔
أَبَاکَ۔ دودھ دہنے کے وقت گائے کی
 ٹانگوں میں باندھنے کی رسی ج:- **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ**
أَبَاکَ و **أَبَاکَ**۔ لیموں کا درخت۔
أَبَاکَ (رض) **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ**۔
 غصہ کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلنا، غضب
 میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا۔

أَبَاکَ (رض) **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ**۔
 اقامت پذیر ہونا، دیر و تاخیر کرنا۔
أَبَاکَ۔ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور اس
 لفظ کا اطلاق بیشتر اس جمع پر ہوتا ہے جو
 انہما غم کے لئے ہو۔ ج:- **أَبَاکَ**
أَبَاکَ۔ گدھی۔ ج:- **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ**
أَبَاکَ۔ گدھی خریدنا، کہا جاتا ہے "کان
أَبَاکَ۔"

أَبَاکَ۔ پیش اس وقت کسی جاتی ہے کہ
 کوئی عزت دار تو کزالت کا شکار ہو ہو۔
أَبَاکَ۔ حاتم کا چولہا چونر بنانے کی بھٹی،
 ج:- **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ**۔
أَبَاکَ (رض) **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ**۔ درخت میں پھل
 آنا، پھل بہت پیدا ہونا۔ بہ و علیہ:-
أَبَاکَ۔ خور کرنا۔

أَبَاکَ و **أَبَاکَ**۔ رشوت دینا۔
أَبَاکَ۔ الارض: زمین کی پیداوار یا روئیدگی۔
أَبَاکَ۔ خراج، رشوت، ج:- **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ**
أَبَاکَ (رض) **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ**۔
 آنا۔ بالماکان، حاضر ہونا۔ الشی:
 کرنا، پورا کرنا، جاری و نافذ کرنا۔ **أَبَاکَ**:-
 کسی آدمی کے پاس سے گزرنا۔ **أَبَاکَ**:-
 ہلاک کرنا۔

أَبَاکَ۔ **أَبَاکَ** و **أَبَاکَ**۔ الماء: پانی کے
 بہاؤ کے لئے راستہ نکالنا۔



آتَاهُ مَوَاتَاةً - علی الشیء موافقت کرنا
آتَىٰ اِبْتِئَاءً فَلَانًا - الشیء کسی کو کوئی چیز دینا
اور اسی سے ہے۔ آتِئَاءً غَدَاةً -

— الیہ الشیء: (کسی کو کوئی چیز) بھیجنا۔

— الرجل: بدلہ دینا۔

تَأْتِي - الامر: تیار ہونا، آسان ہونا — الامر:
نرم ہونا، مہیا نہ روی اختیار کرنا۔

— المعروف: درپے ہونا۔

اِسْتَأْتَى - الرجل: آنے کی درخواست کرنا۔
سُئِتَ بِمَعْنَا -

الْاِثْنِ وَالْاِتَّوَاوِي - مسافر پر دیسی، اجنبی۔

سَبِيلُ اِثْنٍ وَ اِتَّوَاوِي - اچانک آجانے والا

سیلاب، انجان جگہ سے آجانے والا سیلاب۔

الْمَأْتِي وَالْمَأْتَاةُ - سمت، جہت، کہا جاتا

ہے "اِثْنِ الْاَمْرِ مِنْ مَأْتَاةٍ اَوْ مَأْتَاةً"

اس نے کام کو اس کے طہب اور طریقہ سے کیا۔

اَتَتْ رَسْنًا، اَتَتْ اَدَاؤُهَا وَ اَتَتْ شَيْئًا

الْبَنَاتِ وَالْاَشْعَرُ، گنجان اور گھٹنا ہونا، بکثرت

ہونا اور گھٹھے دار ہونا، صفت: اَتَتْ وَ

اَتَيْتُ ج: اِثَاتٌ -

اَتَتْ الْفَرَّاشَ: (بستر) بچھانا۔

تَأْتَتْ - مال پانا، خوش حالی نصیب ہونا

اَشْرَ (ر: ن) اَشْرَاو اَشَارَةً وَ اَشْرَقَ

الحديث، بیان یا نقل کرنا، صفت مفعولی:

ماثوس — کسی کا اکرام و احترام کرنا

اَشْرَ - (ر: ن) اَشْرَا - بفعل کذا: وہ ایسا کرنے لگا

— لامر: کسی کام میں کیونے کے ساتھ لگ جانا

— علیہ: لگا ارادہ کرنا — علیہم: اوروں کو

نظر انداز کر کے اپنے لئے بہترین چیزیں چھانڈ لینا

اَشْرَفِيْهِ - اثر پیدا کرنا کسی چیز پر اثر انداز ہونا

اَشْرَكَ اِثْسَارًا - اکرام و عزت کرنا، پسند کرنا،

فضیلت و برتری دینا۔

اَشْرَكَ اِكْذَا - بھیجے لگانا۔

تَأَشَرُوا اِسْتَشَرُوا فَلَانًا: کسی کے نشانات قدم

پر چلنا، پیروی کرنا — من و بہ: اثر پہنچنا،

اثر قبول کرنا، ہم کہہ سکتے ہیں مَا تَأَشَرَا اِلَى
اَشْرَا اس نے میرے ساتھ کوئی سلوک نہیں

کیا، یا مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔

اِسْتَشَرُوا - باشی علی الغیر: دوسرے کے مقابلہ

میں اپنے لئے کوئی چیز مخصوص کر لینا، کسی چیز

میں خود کو دوسرے پر ترجیح دینا — اللہ بہ:

اللہ تعالیٰ کا کسی کو دنیا سے اٹھ لینا، دُعا دینا

اَلْاَشْرُ کسی چیز کا اثر و نشان، حدیث، سنت،

مدت، ج: اِتَّادُوا اَشْرًا علم الاشارة لگی

قوموں کی چھوڑی ہوئی یادگاروں کی معرفت

مثلاً اُن کے مکانات، محبتے اور کتے وغیرہ

کی معرفت، کہا جاتا ہے "خَرَجَ فِي اَشْرَةِ

دَاوُدَ" وہ اس کے بعد نکلا وَ عَلَى الْاَشْرِ

یعنی فوراً اور فی الحال نکلا۔

اَلْاَشْرِي - آثار قدیمہ کا ماہر۔

اَلْاَشْرُ وَالْاَشْر - زخم کا نشان، ج: -

اَشْرَاو اَشْرًا -

اَلْاَشْر - تلوار کا جوہر، ج: - اَشْرًا

اَلْاَشْرَة - ج: - اَشْرًا و اَلْاَشْرَة بقیہ علم،

موردی شرافت و بزرگی، اچھا فعل، پسندیدہ فعل

اَلْاَشْرَة - پسندیدگی، دوسرے کے مقابلہ میں

انسان کا اپنے لئے بھی شے پسند کرنا، خود کو

دوسرے پر ترجیح دینا، انتہائی خود پسندی،

دخود غرضی۔

اَلْاَشْبُر - تلوار کا جوہر، باعزت و با شرف، ج:

اَشْرَاءُ

فَرْسٌ اَشْبُر - وہ گھوڑا جس کے کھڑوں کے نشانات

بڑے بڑے ہوں۔

اَلْاَشْبُر - قدامت، نوں آسمان کو بھی اثر کتنے ہیں

اور باصطلاح علمائے طبیعیات اَشْبُر "اَشْبُر"

کو کہا جاتا ہے یہ دراصل وہ مادہ ہے جس کے

تموج سے گرمی بڑھتی ہے اور آواز دور

تک جاتی ہے۔ حدیث مأثورہ قرن بعد

قرن نقل ہونے والی حدیث یا بات، اور

اسی معنی کے پیش نظر کہا جاتا ہے السیف

الماتوس، یعنی خاندانی تلوار۔

الْمَأَشْرَةُ وَالْمَأَشْرَةُ - پسندیدہ فعل،

خاندانی شرافت و بزرگی، ج: - مَا اَشْرُ

اَلْقَيْلُ (ر: ن) اَلْقَيْلُ کسی کے پیچھے جانا، طلب کرنا

اَلْقَيْلُ تَأْتِيْفًا - القدر: چوتھے پر ہندی رکھنا

تَأْتَيْتُ الرَّجُلَ الْمَكَانَ - کسی کا جگہ سے نہ ملنا،

جگہ پر جمع جانا — القوم الامر علیہ: لوگوں

کا کسی کام پر اکٹھا کرنا۔

اَلْاَتْفِيْتَةُ - چوتھے کا پایہ، جس پر ہندی رکھی

جاتی ہے، جماعت، ج: اَتَانِي

بِتَأْتِيْتِ الْاَتَانِي - پہاڑ کا ایک حصہ جس کے

سامنے دو پتھر رکھ کر اس پر ہندی رکھتے ہیں۔

کہا جاتا ہے "دعاه الله بتأتيته الاثافي"

یعنی خدا کرے وہ بڑی مصیبت میں پڑے۔

اَشَلَّ (ر: ن) اَشَلَّ وَ اَشَلَّ (ر: ن) اَشَلَّ

زین میں یا شرافت میں جڑ پکڑنا۔ صفت:

اَشِلَّ وَ اَشِلَّ -

اَشَلَّ الْمَالُ - مال کی ذکوہ دینا، اصل ٹھہرانا،

— المروء: تعظیم کرنا — المجد: بزرگی

کی بنیاد رکھنا۔

تَأَشَلَّ - جڑ پکڑنا، جمع ہونا — المال: مال

لکانا، اس کو بڑھانا — البئر: کنواں کھودنا۔

اَلْاَشَلَّ - جھانکا و درخت، واحد اَشْلٌ - ج: -

اَشَلَّتْ وَ اَشَلَّ وَ اَشَلَّ - کہا جاتا ہے

"نَحْتُ اَشْلَةً فَلَانًا" یعنی اُسے عیب

لگایا اور اس کو کم قدر کیا۔

اَلْاَشْلَةُ وَ اَلْاَشْلَةُ - گھر کا سامان و اسباب

اصل سامان - اَلْاَشْلَةُ وَ اَلْاَشْلَةُ

موردی مال یا شرافت یا بزرگی۔

اَشَمَّ (ر: ن) اَشَمَّ وَ اَشَمَّ اَشَمَّ اَشَمَّ

ناجاہت کا کم کرنا، گناہ کرنا، صفت، اَشَمَّ

ج: اَشَمَّ وَ اَشَمَّ وَ اَشَمَّ -

اَشَمَّ - (ر: ن) اَشَمَّ - الله فَلَانًا فِي كَذَا

— گناہ گار ٹھہرانا اور سزا دینا۔

اَشَمَّ - کسی کو گناہ کی طرف منسوب کرنا۔

آثَمَ — ہا کسی کو گناہ میں مبتلا کرنا۔

تَاَثَمَ گناہ سے پنا اور گناہ گناہ سے گریز کرنا۔

الِاثْمُ (ج) آثام والمائثۃ والمائثم۔

ناجائز فعل، گناہ، جرم، خطا۔

الِاثْمُ گناہ کی جزا اسی سے ہے یلَقِ آثَامًا

الِاثْمُ — بھیر پیا، بھرا، بشارب، چنا پوکھا

جائنا ہے شَرِبْتُ الْإِثْمَ حَتَّى مَضَلْتُ عَقْلِي۔

میں نے شراب پی، یہاں تک کہ میری عقل گم ہوئی

آثَانِ (ن) وَأَثَوَا وَأَثَاوَةً وَآثِيًّا

وَأَثَائِيَّةً۔ ایک کسی کی چٹلی کھانا کسی پر تہمت لگانا

تَاَثَوَا وَتَاَثَوَا۔ بادشاہ کے پاس مقدمے گئے

المَائِيَّةُ والمَائَاثَةُ۔ چغل خوری

آج (ن) آجِبًا (اگ کا) بھرنی، شعلہ مارنا،

صفت، آجاج و آجوج۔ آجوجا

الماء: پانی کا کھاری اور کڑوا ہونا۔

آجَجَ۔ النار: آگ کو بھڑکانا پانی کو کھاری

بنانا۔ عَلَى الْعُدُوِّ دشمن پر حملہ کرنا۔

آجَر۔ الماء: پانی کو کھاری بنانا

تَاَجَجَ وَتَاَجَجَ وَاسْتَجَجَ۔ بھڑکانا شعلہ

ہونا۔ اسْتَجَجَ۔ المیز: گرمی کا شدید ہونا

الْأَجَاجُ۔ بہت کھاری اور کڑوا پانی۔

الْأَجَنَةُ۔ گرمی کی شدت اور تیزی۔ ج: إَجَاجُ

وَالْأَجْبِيجُ شور، چلنے کی آہٹ۔

أَجَدَا وَأَجَدَا وَأَجَدَا۔ قوی کرنا مضبوط

کرنا۔ نَاقَةُ أَجْدٍ مضبوط اونٹنی۔

الْإِجَادُ۔ چھوٹا طاق۔ الْمُؤَجَّدُ۔ مضبوط

کیا ہوا، کہا جاتا ہے بَنَاءُ مُؤَجَّدٍ یعنی عمارت

مضبوط ہے۔ ثَوْبٌ مُؤَجَّدٌ النسيج مضبوط بنا ہوا کپڑا۔

أَجَرَ۔ (ن) أَجَرًا وَأَجَارَةً وَأَجَرَ أَجَارًا

الرجل علی کذا: بدلہ دینا، مزدوری دینا۔

أَجَرُونِ (ن) أَجَرًا وَأَجَارًا وَأَجُورًا

العظم: ہڈی کا جڑھنا یا درست ہو جانا۔

العظم: ہڈی کا جوڑنا اور درست کرنا

أَجَرَ الطَّيْنِ۔ مٹی کا پکانا۔ أَجَرَ مَوَاجِرَهُ

الرجل: مزدور بنانا۔ إِيْجَارَ الدَّارِ قُلَانًا

وَمِنْ فُلَانٍ بَهِرَ كُرَايَةٍ بِرُؤْيَا، صفت کا صیغہ

مُؤَجَّرٌ ہے بکریچیم، تر مو اچر۔

اسْتَجَرَ۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، مزدوری مانگنا

— علیہ لکڑا، اجرت پر مزدور ہونا۔

اسْتَجَرَ الدار: گھر کو کرایہ پر لینا۔ الرجل:

کسی کو مزدور رکھنا۔ الإِجْرُ۔ ثواب۔

ج: اُجُور و اُجَار۔ الأَجْرَةُ۔ ایٹ۔

ج: الأَجْرُ۔ الأَجْرَةُ ج: اُجُور و

الإِجَارَةُ۔ کرایہ، مزدوری۔

الْأَجِيرُ۔ نوکر، مزدور۔ ج: اُجَرَاءُ

اِجْأَصَ۔ آلو بخارا، زرد آلو۔

أَجَلُ (ن) أَجَلًا۔ علیہ مشرّا کسی کے

خلاف شرٹھا ہونا۔

أَجَلُ (ن) أَجَلًا۔ دیر کرنا، گردن کے درد

میں مبتلا ہونا، صفت: أَجَلٌ و أَجِيلٌ

أَجَلُ الشئ: کسی چیز کی مدت مقرر کرنا یا مدت

دینا۔ الرجل: درد گردن کا علاج کرنا

تَاَجَلَّ۔ پیچھے رہنا، مہلت مانگنا۔

اسْتَأْجَلَ۔ تاخیر چاہنا، مہلت طلب کرنا

أَجَلٌ۔ ہاں، بے شک۔

أَجَلٌ۔ مدت، وقت، موت۔ ج: أَجَالٌ

الْأَجَلُ۔ سبب، کہا جاتا ہے مِنْ أَجْلِ

فَعَلْتُ هَذَا میں نے تمھاری وجہ سے کیا۔

الْأَجَلُ۔ گردن کا درد۔

الْأَجَلُ۔ نیل گائیوں کا گمہ ج: أَجَالٌ۔

الْأَجَلُ وَالْأَجَلَةُ۔ دیر سے ہونے والا، آخر

أَجَمَ (ن) أَجَمًا وَأَجَمًا وَأَجَمَ

النهار: دن کا سخت گرم ہونا۔

تَاَجَمَ۔ علیہ کسی پر غضبناک ہونا

تَاَجَمَ الأسد: شیر کا بھاڑی میں داخل ہونا۔

الْأَجْمَةُ۔ گنجان درخت، بھاڑی، شیر کے

رہنے کی جگہ۔ ج: أَجَمٌ و أَجَمٌ و أَجَمَاتٌ

ج: أَجَامٌ۔ الأَجْمُ قطعہ ج: أَجَامٌ

أَجَنَ (ن) أَجَنًا وَأَجَنًا وَأَجَنًا

الرجل علی کذا: بدلہ دینا، مزدوری دینا۔

أَجَرُونِ (ن) أَجَرًا وَأَجَارًا وَأَجُورًا

العظم: ہڈی کا جڑھنا یا درست ہو جانا۔

العظم: ہڈی کا جوڑنا اور درست کرنا

أَجَرَ الطَّيْنِ۔ مٹی کا پکانا۔ أَجَرَ مَوَاجِرَهُ

(ن) أَجَنًا الماء: پانی کا ڈبک اور مزہ بدلنا

صفت، أَجِنٌ و أَجِنٌ۔

أَجَنَ (ن) أَجَنًا الثوب: کپڑے کو دھو لے کے

لئے کوٹھا۔

الْأَجَانَةُ۔ کپڑے دھونے کا ٹب۔ ج: أَجَانِینُ

الْمُجَنَّةُ وَالْمُجَنُّ۔ کپڑا کوٹنے کی موگری

ج: مَا أَجِنُ

أَحَ (ن) أَحَا کھانا

الأَحَا ح۔ پیاس۔ والأَحْمَدُ والأَحْمَدَةُ

أَحَدٌ و أَحَدٌ۔ المقدور: مقدور کو ایک کر دینا۔

— العَدُوُّ کسی عدو پر ایک بڑھا دینا۔

أَتَحَدَّ۔ بہ: اکٹھا ہونا، متفق ہونا۔

اسْتَحَدَّ۔ اکیلا ہونا۔

الْأَحَدُ۔ ایک، اکیلا، یکتا، مونث، اُخْدَی

کہا جاتا ہے "فُلَانٌ أَحَدُ الْأَحْدِینَ"

فُلَانٌ بے مثل ہے "أَحَدُ الْأَحْدِ" بڑا بڑا معاملہ

أَحَادٌ۔ ایک ایک، کہا جاتا ہے "جَاوُذُ الْأَحَادِ"

أَحَادٌ أَحَادٌ "یعنی وہ لوگ ایک ایک کر کے آئے

الْأَحَدُ۔ یکشنبہ، اتوار ج: أَحَادٌ

أُحْدٌ۔ مدنیہ منورہ کے پاس ایک پہاڑ کا نام

الْأَحْدِیَّتُ۔ بختاالی

أَحَنَ (ن) أَحَنًا پوشیدہ، کینا اور دشمنی رکھنا۔

أَحَنَ مَوَاحِنَةً۔ الرجل: کسی سے دشمنی رکھنا

الْأَحْنَةُ۔ کینہ، ج: أَحَنٌ

الْأَحْبُوطُ وَالْأَحْطَبُوطُ۔ جگہوں کا ایک کپڑا۔

أَحَدَنَ (ن) أَحَدًا وَأَحَدًا۔ لینا —

وبہ: کسی چیز کو پکڑنا — کا دینا یہ کسی کو

گناہ پر سزا دینا کسی سے مواخذہ کرنا —

علی یدہ: کسی کو کام رکھنے سے باز رکھنا۔

— مِنْ شَأْنِهِ، موبھی کترنا — عنہ

نقل کرنا، سیکھنا — علی نفسه: اپنے نفس پر

نکڑانی رکھنا — فِیْهِ الخمر: شر کرنا، اٹھانا

ہوتا — کَفَعْلٌ کرنے لگنا — فی کذا:

شروع کرنا — أَحْزَهُ و أَحْزَهُ: کسی کے طریقے

پر چلنا، کسی کے اخلاق کو اپنانا اور اس کے رنگ



میں رنگنا۔

أَخَذَهُ - کسی پر جادو کرنا۔

أَخَذَهُ مَوْأَخَذَةً - کسی پر طاعت کرنا، متاثر کرنا۔
— علی ذہب و بدہ نہ۔ سزا دینا۔

اتَّخَذَ - کر دینا، بنا دینا، عاجز ہونا۔

اتَّخَذَهُ - و تَخَذَهُ (رس) تَخَذَ صِدْقًا
دوست بنا لینا۔

اسْتَأْخَذَ - درو کی وجہ سے سر جھکانا

الْأَخْذُ - آشوب چشم۔

الْأَخْذَةُ - سحر جادو، منتر، درندوں کے
شکار کے لئے گڑھا۔

الْأَخْذَةُ - جسے یا اعضاء کی پرست۔

الْإِخَاذَةُ - وہ تالاب نامشیب زمین جہاں

جس میں پانی جمع ہو۔ جہاں - إِخَاذَاتُ وَأَخْذُ

اور إِخَاذٌ کی جمع أَخْذٌ وَأَخْذٌ

الْأَخْبِيذُ - قیدی۔ جہاں - أَخْذِي

الْأَخْبِيذَةُ - مال غنیمت، لوٹ کا مال، دشمن

سے چھینا ہوا مال، غصب کیا ہوا مال۔

الْمَأْخِذُ - راستہ، لینے کا طریقہ، وقت یا وہ

جگہ جہاں سے کوئی چیز لی جائے جہاں - مَأْخِذُ

الْمَأْخِذُ - جھنڈے، جمال۔

أَخْرَجَتْ أَخْبِرًا - ہنسنے، پیچھے کرنا۔

تَأَخَّرُوا اسْتَأْخَرُوا - پیچھے رہنا۔

الْأَخْرُ - غیر، دوسرا، دیگر اور جہاں - أَخْرُونَ

مَوْثُ أَخْرِي وَأَخْوَا جہاں - أَخْوَا أَخْرِيَاتُ

کنایہ کے طور پر کہا جاتا ہے "إِنَّمَا اللَّهُ الْأَخْرُ"

یعنی اللہ اس شخص کو دور کرے جو ہم سے نہیں ہے

الْأَخْرُ - پھلنا، حصہ، کہا جاتا ہے "الثَّوْبُ أَخْرًا"

ومن أخْر "یعنی اُس نے کپڑے کو پیچھے سے

بھاڑ دیا۔

الْأَخْرَةُ - دیر، کہا جاتا ہے "جَاءَ أَخْرَةً"

وَبِأَخْرَةٍ - یعنی وہ آخر میں آیا۔

الْأَخْرُ - پھلنا، جہاں - أَخْرُونَ مَوْثُ أَخْرِي

جہاں - أَخْرِيَاتُ کہا جاتا ہے "لَا أَفْلَهُ أَخْرُ"

الدهور أخْرِي السَّالِي "یعنی میں اس کو بھی نہیں کروں گا"

أَخْرِيَاتُ الْجَنِينَةِ - باغ کا آخری حصہ

الْأَخْرَى وَالْأَخْرَى - دار البقا اور نسبت

کے لئے أَخْرَى، المُوَخَّرُ والمُوَخَّرَةُ

جہاں - مَاخِرٌ وَالْأَخْرَةُ مِنَ الْعَيْنِ کُتِبَ كَ

مُرْخٍ مِّنْ أَخْرٍ كَ كُوشَةٍ، مَوْخَرَةُ الرَّحْلِ وَ

مَوْخَرَةٌ وَأَخْرٌ كَجَاوِدٍ كَاجِلٍ حَصَّة - المَخَارِصُ

الْمَخْلُ كَجَوْرٍ كَرَحْتٍ مِّنْ كَاجِلٍ أَخْرُومٍ سَرَمَا

مَكْرَبَةٍ - جہاں - مَاخِرٌ - مَوْخَرُ الشَّيْ

جِيزِ كَاجِلٍ حَصَّة -

أَخَارُ (من) أَخْوَةٌ - بھائی یا دوست بننا

أَخِي لِلدَّائِمَةِ - جانور کے لئے ہانڈھنے کی حلقہ

دارستی بنانا۔ أَخِي إِخَاءٌ وَمُؤَاخَاةٌ وَ

إِخَاذَةٌ - بھائی یا دوست بنانا۔

تَأَخَّحِي - کسی کو بھائی بنانا یا بھائی کہہ کر پکارنا

وتَوَخَّحِي الشَّيْءَ فَتَقَدَّرَ كَرَنًا تَلَاَشَ كَرَنًا تَأَخَّحَا

بِأَخٍ بھائی بھائی بننا آپس میں ایک دوسرے

کا بھائی بننا۔

الْأَخْرُ وَالْأَخْرُ وَالْأَخْوُ وَالْأَخْوُ - بھائی، ساتھی

دوست، تشنہ، اخوان جہاں - أَخْوَةٌ وَأَخْوَةٌ

وَأَخْوَانٌ وَأَخْوَانٌ وَأَخْوَانٌ وَأَخْوَانٌ

بعض کہتے ہیں کہ "الأخوان" اُس شخص کی طرح

ہے جو بلحاظ صداقت و دوستی بھائی کے معنی

دیتا ہے اور "الأخوة" اُس شخص کی جو بھائی

نہی کے معنی میں آتا ہے اور نسبت کے لئے

أَخْوِي وَأَخِي -

الْأَخْتُ - بہن، جہاں - أَخَوَاتُ

الْأَخْتِ وَالْأَخْتِ - وہ حلقہ دار درستی جو زمین

میں گڑی ہوئی کھونٹی سے بندھی ہوئی ہوتی

ہے اور جس سے جانور باندھے جاتے ہیں۔

جہاں - أَخْوِي وَأَخْوِي وَأَخْوِي - کہا جاتا

ہے سَدَّ اللَّهُ بَيْنَكُمْ وَأَخْوِي الْإِخَاءُ

یعنی اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان بھائی بند

کے رابطہ کو مستحکم کرے۔

أَخْوَرُ - اطمینان، آخون - ناگ چینی۔

أَدْرَسَ (من) أَدْرَسَ - الویل، مصیبت

کا اچانک آنا۔ الامر: بھاری اور دشوار

ہونا۔ الرُّجُلُ فِي الْأَرْضِ چل دینا، سفر کرنا۔

تَأَدَّدَ الامر: کسی کام کو بھل ہونا اور شکل ہونا۔

صفت: أَدِيدٌ - الأَدِيدُ شور

الْأَدْوَالُ وَالْأَدْوَالُ - مصیبت، ہوننا، واقعہ، دشوار

کام۔ جہاں - أَدَاوَادُ -

أَدَبٌ (ك) أَدَبًا اچھی تربیت والا یا شائستہ

ہونا، صاحب ادب ہونا صفت: أَدِيبٌ

جہاں - أَدِبَاءُ -

أَدَبٌ - (من) أَدَبًا، أَدَبٌ إِيْدًا أَبَا

دعوت کا کھانا تیار کرنا۔

أَدَبُهُ وَأَدَابُهُ کسی کو دعوت میں بلانا۔

کہا جاتا ہے "أَدَبُهُمْ عَلَى الْأَمْرِ" اُس نے ان

سب لوگوں کو کام پر جمع کیا۔

أَدَبٌ - ہند، مذہب بنانا، شائستہ بنانا

ادب و اخلاق سکھانا کسی جرم پر سزا دینا۔

تَأَدَّبَ - اچھی تربیت پانا، ادب و تہذیب

سیکھنا۔ عَنِ فُلَانٍ کسی کے اخلاق کو لینا۔

— بر: کسی کی اقتدار کرنا۔

إِسْتَدَابَ - ادب سیکھنا۔

الْأَدَبُ - وہ اخلاقی ملکہ جو انسان کو مرناسائستہ

بات سے باز رکھے، اچھی روش، دانش،

جہاں - آداب آداب کا اطلاق قریم کے علوم

فنون پر بھی ہوتا ہے یا اُن کے کسی دلچسپ

حصے پر اور کسی چیز یا کسی شخص کے مخصوص قوانین

کو بھی آداب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً:

آداب الدرس آداب القاضی وغیرہ۔

علم الادب - وہ علم جس کے ذریعہ بول چال

اور تحریری غلطیوں اور لغزشوں سے بچا جائے

الْأَدَبُ وَالْمَادِبَةُ وَالْمَادِبَةُ دعوت

یا کسی تقریب کا کھانا۔ جہاں - مَادِبٌ

أَدْرَسَ (من) أَدْرَسَ آداس خضیب والا ہونا

صفت: آداس

الْأَدَمَةُ وَالْأَدَمَةُ - آداس خضیب

الْأَدَفُ - آداس ناسل - کان

آذِل (رض) آذِلًا الجرحُ بفتح الهمزة - اللب: بلونا - الباب: بند کرنا۔
 آذِل - گردن کا درد۔ گڑھا کھٹا دودھ۔
 آذَر (رض) آذَمًا الجرحُ: روئی کو سانپ کھونکنا
 صفت مفعول: مادہ و آذِر۔ و آذَر
 اِبْدًا مًا - بین متخاصمین دودھ کھڑے
 والوں میں صلح کرنا اور موافقت پیدا کرنا۔
 آذَر (رض) آذَمًا المَلَأَ: اپنے اہل کیلئے نمونہ بنا
 آذَر (رض) آذَمًا و آذَمًا: آدم گندم کوں ہونا
 اِشْتَدَّ - سالن سے روئی کھانا۔
 الإِذَار - ہر موافق و ملائم چیز۔ سالن: جہ:
 آذَم و آذَم
 الآذَم - ہر وہ شے جس کا سالن بنایا جائے
 الآذَمَة و الآذَر - چڑے کا اندرونی یا
 بیرونی حصہ، کہا جاتا ہے "فَلَانٌ آذَر قَوْمَهُ"
 و آدم بنی اہلبہ و آدمۃ قومہ یعنی فلان شخص
 اپنی قوم کا پیشوا اور سردار ہے جس سے اس کی
 قوم پہچانی جاتی ہے۔
 آذَر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا نام نامی و
 اسم گرامی، افراد جس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا
 ہے جہ: آذَر نبت کے لئے
 الآذَر گندم گوں۔ مؤنث: آذَماء جہ: آذَر
 الآذَر - چڑے کا بیوپاری اور اس کی تجارت
 کرنے والا۔ الآذَم - رنگا ہوا چمڑا، دھوڑی
 آذَم التَّهَار - دن کی روشنی کہا جاتا ہے "طَلَّ
 آذَم التَّهَارِ صَافًا" وہ پورے دن رونے سے رہا
 آذَم الصَّحْبَى - چاشت کا شروع۔
 آذَم اللَّيْل - رات کی تاریکی۔ والآذَم
 مِنَ السَّيْرِ وَالْأَرْضِ - زمین و آسمان کی
 ظاہری سطح، جہ: آذَم و آذَم و آذَم و آذَم
 الآذَمَة - قرابت۔ وسیلہ، گندم گونی۔
 آذَار (ن) آذَا - الثمر: میوہ کا پکنا۔ اللب:
 دودھ کا جھنا یا گاڑھا ہونا۔
 اللب: دودھ بلونا۔ لعل: کسی شخص کو دھوکا
 اور فریب دینا۔

تَأَذَى و تَأَذَى - آل، بنانا، تیار کرنا، اسباب
 مہیا کرنا۔ الآذَا - آلہ جہ: آذَوَات
 الإِذَاوَة - چڑے کا چھوٹا سا طرف، یا برتن۔
 جہ: آذَاوَى
 آذَى (رض) آذَى و آذَى تَأَذِيَةً - الغی:
 پہچاننا، ادا کرنا۔
 آذَى اِيشَا - تیار کرنا، قوی ہونا،
 - علیہ کسی کی مدد کرنا۔
 تَأَذَى لَدَا - حشہ، اس نے اسکا حق ادا کر دیا
 - الیہ الجرح: خبر پہنچانا۔
 اِسْتَادَى - فَلَانًا المَالُ: کسی سے مال لینا۔
 - علیہ کسی سے مدد چاہنا۔
 الآذَاء - آذابیگی، پہنچانا۔
 إِذْ - زمانہ ماضی کے لئے ظرف ہے اس کے بعد
 جملہ واقع ہوتا ہے اور کبھی جملہ کو حذف کر کے
 اس کی جگہ تین لائے میں، مثلاً صَحْبَى جَاءَ كُمُ
 المَوْتَ خَيْشَنُ تَعْلَمُونَ کہ یہ دراصل یوں
 تھا فَمِنْ اذِ یَحْبِثُ تَعْلَمُونَ - اذِ
 مفاجات کے لئے بھی آتا ہے جیسے کہا جاتا
 ہے "بَدِئْنَا اَنَا جَالِسًا اِذْ جَاءَ زَيْنٌ" یعنی
 میں بیٹھا ہوا تھا کہ ناگہا زید آگیا۔ کبھی
 لَام تَعْلِيل کے معنی دیتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ
 "فَعَرَبْتُ اَنْبِیَ اِذْ اَسَاءَ" یعنی میں نے اپنے
 بیٹے کو مارا کیوں کہ اس نے بری کی تھی۔
 اِذَا - زمانہ مستقبل کے لئے ظرف ہے اور شرط کے معنی
 دیتا ہے جیسے اِذَا اجْتَهَدْتَ نَجَحْتَ یعنی
 جب تم کوشش کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے
 اور حرف مفاجات کے لئے بھی ہے جیسے تَحَبُّثٌ
 فَاِذَا اسْدُ بِالْبَابِ یعنی میں نکلا تو ابھاگ
 دروازہ پر شیر تھا
 آذَار و آذَار - شمس سال کا تیسرا مہینہ جو ۳۰
 دن کا شمار ہوتا ہے، ماہ مارچ۔
 الآذَرِیون - سورج مکھی
 اِذْمَا - حرف شرط ہے بمعنی اِنْ اور دُفْعِلوں کو
 جزم دیتا ہے جیسے اِذْمَا تَقُمُ، اَقُم۔ اگر

تم کھڑے ہو گے تو میں بھی کھڑا ہوں گا۔
 اِذْن و اِذَا - صرف جواب و جزا ہے مثلاً اگر کوئی
 تم سے کہے اِذْ ذَلَّ عِنْدَ اَکْرَمِی آپ کی
 زیارت کروں گا۔ تو تم اس کے جواب میں کہو
 اِذْن اَکْرَمُکَ کریں آپ کا اکرام کروں گا۔
 اِذْن (س) اِذْنًا الیر و لہ: کان لگانا، سُننا،
 کہنا جاتا ہے "حَدَّثَنِيكَ فَادْنُ لِي لِحْنِ الْاُذْنِ"
 میں نے جب اس سے بات چیت کی تو اس نے
 خوب کان لگا کر میری بات سنی۔ اِذْنًا و اِذْنًا
 - لَدُنِ الشَّيْءِ: اجازت دینا، مباح کرنا۔
 اِذْنًا و اِذْنًا و اِذْنًا و اِذْنًا و اِذْنًا ہاشی: پہنچانا
 اِذْنَه (ن) اِذْنًا کان پر مارنا، گڑھالی کرنا۔
 اِذْن - کسی کا کان کے درمیں مبتلا ہونا۔
 اِذْن اِيشَا - فَلَانًا الامر و بالامر: اطلاع دینا
 آگاہ کرنا۔ الرَجُلُ: کسی کے کان پر مارنا۔
 - العشب: گھاس کا سُوکھنے لگنا۔
 اِذْن تَأْذِيَتًا - بالصلوة: نماز کے لئے اِذْن
 دینا یا بلانا۔
 اِذْن الْوَلَد - بچہ کے کان مروٹنا۔ تَأْذِن
 قسم کھانا۔ الامر: کسی کام سے آگاہ کرنا۔
 - بالشر: شر سے ڈرانا۔ الامر فی التَّائِلِ
 امیر کا لوگوں میں اعلان کرنا اور وہم کا نا۔
 اِسْتَاذَن - اجازت چاہنا۔ علیہ: اندر آنے
 کی اجازت طلب کرنا۔
 اِذْن - اجازت، علم، کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا
 بِاِذْنِي" یعنی اس نے اس کو میری دانستگی
 میں کیا۔
 اِذْن و اِذْن - کان (مؤنث) جہ: اِذْن
 تصغیر: اِذْنِہ۔ اِذْن الفارو - الجملی و
 - الارنب و - الفیل مختلف نباتات
 کے نام ہیں۔ اِذْن المَوْز کوزے کا دستہ،
 کہا جاتا ہے "فَلَانٌ اِذْنٌ مِنَ الْاِذْنِ" یعنی
 فلاں شخص ہر ایک کی بات کو مان لیتا اور باوجود
 کر لیتا ہے۔ یہ لفظ واحد ہے، شنیہ و جمع مذکر
 و مؤنث سب میں یکساں استعمال ہوتا ہے۔

مثلاً کہا جاتا ہے اُذُن۔ ہما اُذُن۔
ہم اُذُن اسی طرح کہا جاتا ہے ”جاءنا شراً
اُذُنِیْہ“ یعنی وہ لالچی اور طمع پرست بن کر آیا
یوں بھی کہا جاتا ہے ”جاءنا لیساً اُذُنِیْہ“
وہ غافل ہو کر آیا۔
الاذنۃ - خواہش۔
الاذن - اذان، بانگِ خبردار کرنا۔
الاذن والاذنی - بڑے بڑے کان ٹلا
الاذین والمؤذن - اذان دینے والا۔ بانگی
الاذین - سردار۔ لیڈر۔ کفیل۔
المؤذنۃ - اذان دینے کی جگہ یا مقام۔
منارہ - ج: مآذن
اذی (س) اذی واذاۃ تکلیف اذیت پانا۔
اذی ایذاۃ - الرجل کسی کو دکھ اور تکلیف
پہنچانا۔ تا اذی - تکلیف اٹھانا
الاذی والاذیۃ والاذۃ - تھوڑا
مزر۔ خفیف نقصان۔
الاذی - تکلیف دینے والا یا تکلیف برداشت
کرنے والا
الاذی - موج دریا ج: اواذی
ارب (س) ارباً - ماہر ہونا صفت ارب
واریب مؤنث اربیۃ۔
اسراب بالشیء کسی شے کا بہت دلدادہ اور
مشتاق ہونا کسی شے میں ماہر ہونا۔ داناؤ
بصیر ہونا۔ الید کسی چیز کا محتاج ہونا
الرجل کسی کے اعضاء کا گرجانا۔
غلیہ: قوی ہونا۔
ارب (ض) ارباً - العقدۃ گرہ مضبوط لگانا
الرجل کسی کے عضو پر مارنا۔
ارب رک اربیۃ وارباً - عقدہ دانا ہونا
صفت اربیۃ و اربی۔
ادب الشیء - کسی چیز کو مضبوط کرنا اور محکم
بنانا۔ الشاة بکری کا جوڑ جوڑ الگ کرنا
ٹوٹے ٹکڑے کرنا۔
ادبۃ مؤاربۃ - فریب دینا۔ دھوکا دینا

تأرب - تکلف و بناوٹ سے زیرک بننا۔
الامر: کسی کام کا دشوار ہونا۔
استنارب - معالطہ دنیا کینہ چھپا کر مدارات کرنا
قرض لینا۔
الارب - حاجت ضرورت۔ انتہا۔ ج:
آزاب
الارب - عضو۔ کہا جاتا ہے ”قطعت
الذبیحۃ ارباً ارباً“ یعنی میں نے
اُس کا ایک ایک عضو الگ الگ کیا۔
حاجت۔ ج: آسراب۔
الربیۃ - چالاک، حیلہ
الاسراب - انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی
کے درمیان کا فاصلہ۔
الربیۃ - گرہ کتے کے گلے کا پٹہ۔ ج: ارب
الربیۃ - ران کی جڑ۔
الاسرابیان - جھینگہ مچھلی۔
المارب والماربۃ والماربۃ و
الماربۃ - بہرہ رحرکات را۔ حاجت
ج: مارب۔
الارتۃ - گرگٹ کے سر کے بال۔
ارت - اس کو مادہ ”ورث“ میں دیکھیے۔
استراث - (اگ کا اچھلانا) بینم: لوگوں
میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانا۔
تأرتت النار - آگ کا بھڑکانا۔
الاسرائۃ والاراث - ایندھن۔
الاراث والاراثۃ والاراثۃ - آگ
ارج (س) ارجاً واريجاً و تاراجاً۔
خوشبودینا۔ مہمان صفت: ارج۔
اسراج (ض) اسراجاً - الحق بالباطل:
حق و باطل کو ملانا۔
ارج التاسی - لوگوں کا بلند آواز سے رونا
اسراج القوم بینہم - اُکسانا، ایک کو
دوسرے کے خلاف بھڑکانا۔ صفت
آراج - النار: آگ کو روشن کرنا
اور جلانا۔

الاسراج - بڑا جھوٹا۔
الموثر ج - شیر۔
الارجوان - ایک چھل دار درخت۔
سرخ رنگ۔ سرخ کپڑے
آرخ تارینجا و آرخ موآرخۃ۔
الکتاب: تاریخ ڈالنا۔
التاریخ - وقت کا بیان کسی چیز کے واقع
ہونے کا وقت یا اس کی تاریخ۔ ج:
تواریخ۔
تاریخ الشیء کسی چیز کا وقت یا اس کی غایت
ج: تواریخ
علم التاریخ - وہ علم جو واقعات و حادثات
کے بیان اور اُن کی تاریخ پر مشتمل ہو۔
(۱) الارخ - بیل ج: اروخ (۲) الارخ
نیل گائے۔ واحد: ارخۃ۔ ج: آراخ
و آراخ (۳) الارخیۃ - پہاڑی بکری کا بچہ
الاردب - ایک بڑا اسپانہ جس میں ۲۴ صاع
غلہ آتا ہے۔
اسرا (ن) آرا - الدابۃ: جانور کو اٹھانا، دھکانا
دور کرنا۔ المرأة: عورت سے جماع
کرنا۔ النار: آگ سلگانا۔ السخ:
پاشخان کرنا۔
آرف (س) اریفاً - الماہر: جو نے میں غلبہ
کے وقت ارے ارے رے کرنا۔
الارۃ - آگ۔
ارسن (ض) ف (ن) ارنأ و ارنأ۔
سکھانا۔ سمٹنا۔ کہا جاتا ہے ”فلان یارذلی
وطنہ“ یعنی فلان شخص گھوم گھام کے اپنے
وطن ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ البیل:
رات کا ٹھنڈا ہونا۔ صفت: اریو و ارنأ
و ارنأ۔ کہا جاتا ہے ”بننا لیلۃ ارنأ“
یا رن من فیہا لشدۃ بردھا“ یعنی
ہم نے ایسی ٹھنڈی رات گزار لی کہ سخت
ٹھنڈک کی وجہ سے ہر شخص سڑ پڑا تھا۔ و
ارنأ اصابعہ من البرد“ یعنی اس کی

انگلیاں سردی کے سبب سکڑ گئیں اور ٹھہر گئیں۔ "شجرۃ ارضۃ" وہ درخت جو جڑ پکڑ لے۔

ارینز۔ القوم: قوم کا سردار
الارضۃ۔ صنوبر کا درخت
الارضۃ والارضۃ والارضۃ والارضۃ

چاول
الارضۃ۔ سبیل
ارضۃ (رض) ارضۃ و ارضۃ۔ کاشتکار ہونا۔ زراعت کرنا۔

الارضۃ۔ کاشتکار۔ ج: ارضیون
الارضۃ۔ کاشتکار، بڑا کاشتکار۔ ج: ارضۃ و ارضۃ و ارضۃ۔

الارضۃ۔ پاکیزہ نسب
ارضۃ (ن) ارضۃ۔ بھڑکانا، افسانہ جوش

ولانا، دیت اور خون بہا دینا۔ رشوت دینا۔
ارضۃ۔ بینہم، لوگوں میں فتنہ و فساد ڈالنا

ایک کو دوسرے کے خلاف افسانہ اور بھڑکانا
الحرب والنا: آگ یا جنگ کی آگ بھڑکانا

الارضۃ۔ دیت، رشوت ج: ارضۃ
ارضۃ (ن) ارضۃ و ارضۃ رک: ارضۃ

الارضۃ۔ کسی جگہ کا سرسبز اور خوش منظر ہونا۔ صفت ارضۃ۔

ارضۃ (ن) ارضۃ و ارضۃ ارضۃ الخشبۃ
لکڑی کا دھیرا خوردہ ہونا۔

ارضۃ۔ الکلام وغیرہ۔ آراستہ کرنا، تیار کرنا
کارضۃ۔ بالماکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا

کسی جگہ جم کر رہنا۔ لکڑی: درپے ہونا
استارضۃ۔ السحاب: بادل کا زمین سے

قریب ہو کر پھیل جانا اور جم جانا۔
الارضۃ۔ زمین ج: ارضۃ و ارضۃ

و ارضۃ و ارضۃ۔ کہا جاتا ہے،
"اتانا ابن ارض" یعنی میرے پاس

وہ مسافر پر دسی آیا جس کے نسب کا کوئی پتہ نہیں۔

ارضۃ النعل۔ جوتے کی تلی
الارضۃ۔ لکڑی کھانہ والا کڑا، دیک

ج: ارضۃ۔
الارضۃ شوکی۔ زمین پر پھیلنے والا ایک

کانٹے وار پودا۔
الارضۃ۔ ایک درخت جس کا پھل عناب

کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کا واحد
ارضۃ ج: ارضۃ و ارضۃ و ارضۃ

الارضۃ و الارضۃ۔ ارضۃ۔ ایک قسم کا باج
ارضۃ تاریقاً۔ حد بندی کرنا۔ الجبل:

گرہ لگانا۔
ارضۃ علی الارض۔ محدود کیا جانا۔

الارضۃ۔ دوزخیوں کے درمیان حد فاصل
علامت گرہ ج: ارضۃ

الارضۃ۔ زمین کی پیمائش کرنے والا خالص
دودھ۔ کہا جاتا ہے "هو مو ارضی"

یعنی اس کے مکان کی حد میرے مکان کی
حد کے متصل ہے۔

ارضۃ (ن) ارضۃ و ارضۃ۔ رات میں نیند
نہ آنا۔ بے خوابی کی شکایت ہونا۔

صفت: ارضۃ و ارضۃ و ارضۃ
آخر کلمہ اس کے لئے مخصوص ہے جس کی

عادت ہی بے خوابی کی ہوگی ہو۔
ارضۃ تاریقاً و ارضۃ ابراقاً۔ بیدار

لکھنا۔
الارضۃ و الارضۃ و الارضۃ و الارضۃ

الارضۃ و الارضۃ و الارضۃ و الارضۃ
یرقان، اس بیماری میں انسان کا رنگ

سیاہ یا زرد ہو جاتا ہے، کاشت کر بھی
روگ لگ جاتا ہے۔

ارضۃ (ن) ارضۃ و ارضۃ۔ الجبل: اونٹ
کا پیلو کے درخت کے پتے کھانا۔

الارضۃ۔ پیلو کا درخت۔ واحد: ارضۃ
ج: ارضۃ و ارضۃ۔

ارضۃ (ن) ارضۃ و ارضۃ۔ الجبل: درخت
پیلو کے پتے کھانے سے پیٹ میں درد ہونا

ارضۃ و ارضۃ۔ الجبل: زخم کا اچھا ہونا۔
الارضۃ۔ آراستہ و مزین تخت۔ ج:

ارضۃ و ارضۃ۔
الارضۃ۔ وہ چڑھا جسے ختم کے وقت کاٹتے

ہیں۔
ارضۃ (رض) ارضۃ۔ ماعلی المائدة۔

دستر خوان پر جو کچھ ہو سب چٹ کر جانا۔
الارضۃ: زمین میں نہ جڑ پھوڑنا نہ شاخ

صفت مفعولی ارضۃ و ارضۃ۔
الشی: کسی چیز کو جڑ سے ختم کر دینا۔

الارضۃ: آدمی کو نرم مزاج بنانا۔ الجبل:
مضبوط ہونا۔

الارضۃ۔ ڈالھیں۔ کہا جاتا ہے "میرق
علیہ الارضۃ" یعنی وہ مارے غصہ کے

اس پروانٹ پیستا ہے۔ پتھر۔ انگلیوں
کے کنارے، کنکریاں۔

الارضۃ و الارضۃ۔ میدان میں میلوں کے
شمار کے لئے پتھر۔ کہا جاتا ہے "ماہیا

ارضۃ و ارضۃ" یعنی اس میں کوئی نہیں۔
اس کا استعمال ہمیشہ نفی میں ہوتا ہے۔

ج: ارضۃ و ارضۃ۔
الارضۃ و الارضۃ و الارضۃ و الارضۃ

درخت کی جڑ ج: ارضۃ۔
الارضۃ۔ نشان راہ ج: ارضۃ

ارضۃ (ن) ارضۃ و ارضۃ و ارضۃ۔
الارضۃ۔ اونٹ کا نشاط میں آنا صفت

ارضۃ و ارضۃ۔
ارضۃ (ن) ارضۃ و ارضۃ۔ دانت بے کاٹھا۔

ارضۃ و ارضۃ و ارضۃ و ارضۃ۔
الارضۃ۔ تابوت ج: ارضۃ و الارضۃ

تلوار۔
الارضۃ و الارضۃ۔ وحشی جانور دکن کے

رہنے کی جگہ۔ بھٹ۔ کھوہ۔ ماریٹ



<p>ج: آذرة واذر۔ المئزر والمئزدة - تہند - ج: ماذر - کہا جاتا ہے "شد لاہی" مئزدة "کسی کام کے لئے مستعد تیار ہونا۔ ازف (س) آفاد ازوقا - قریب ہونا - الرجل: جلدی کرنا۔ الجرح - زخم کا بھر جانا۔ آزفہ ایزافا - جلدی کرنا۔ تآزف - الرجل: کسی کا پست قدم ہونا۔ بدخلق ہونا۔ تآزف - قریب قریب قدم رکھنا۔ القوم بعض کا بعض سے قریب ہونا۔ الآزف - تنگی، بد حالی اور اسی سے ہے فی عیشہ آزف - اس کی زندگی تنگ ہے الآزفة - قیامت کا دن الآزفی - تیز رفتاری و چستی "بیشی ازفی وہ تیز چلتا ہے۔ المآزفة - پانسہ - ج: مآزف المناذرة المتآزفة - جھوٹا تشوان مکان متآزف - تنگ جگہ - رجل متآزف - پست قدمو۔ المتآزف - تنگ دل و بدخورد۔ آزق (س) ازقا و ازق (س) ازقا و متآزق - تنگ ہونا۔ المآزق - تنگ جگہ - میدان جنگ ج: مآزق آزل (س) آلا و تآزل تنگی و سختی میں پڑنا - صفت: آزل آزلہ کسی کو روکنا، باز رکھنا، قید کرنا۔ الآزل - بلا مصیبت جھوٹ الآزل - وہ زمانہ جس کے لئے ابتداء نہ ہو۔ الآزلی - قدیم، دائمی جس کی ابتداء نہ ہو۔ المآزل - تنگ جگہ آزمہ (س) آزما و آزوما - دانت سے</p>	<p>الآزب والآزيب - لمبا المئزآب - پرناہ - گندی نالی - بدرد پانی بہنے کی جگہ - ج: مآزيب الآزبة - شدت و قحط آزج البيت - مکان کو لمبا بنانا۔ آزج (س) أزوجا فی مشیتہ: تیر چلنا آزج (س) ازجا - العشب - گھاس کا طویل ہونا۔ آزج (س) أزجا - معنی: بدوطلب کرنے کے وقت کا بی کرنا۔ الآزج - لمبا مکان ج: أزج و آزاج۔ الآزج - ناز و انداز سے چلنے والا۔ خمس أزوج - تیر و تار گھوڑا۔ آزح (س) أزوجا و تآزح - دیر لگانا اور پیچھے رہ جانا - صفت أزوح ازحت قدامہ: اس کا قدم پھسل گیا۔ ازدرخت و آزاد رخت - بکائن کا رخت الازاد - ایک قسم کی کھجور ہے۔ آزس (س) ازرا - بالشی: کسی شے کو گھیننا - النبات: گتھ جاتا۔ وآزفلا نا - کسی کو مضبوط کرنا، قوت پہنچانا۔ وآزرة - ڈھانپنا آزرة مؤازرة - مدد دینا غمخواری کرنا تآزرو و اتزرو - ائتزاز - ازار پہننا تہند باندھنا۔ الآزر - قوت - پیٹھ، کہا جاتا ہے شد یہ آزرہ "اس نے اس کو قوت و طاقت پہنچائی، اسی سے ہے" واشدد یہ آزری۔ الآزر - جڑ - تہند۔ الآزر - تہند باندھنے کی جگہ الآزرة - تہند باندھنے کی ہیئت کہا جاتا ہے "یکل قوم آزرۃ یا تزدونہا" ہر قوم کی جدا جدا رسم و طور طریقہ ہے۔ الآزار - چادر، تہند، پردہ پشتہ دیوار</p>	<p>شاة آران جنگلی بیل الآزنة - ترنیر بعض کہتے ہیں کہ ایک اند ہوتا ہے جو پیئر بنانے کے لئے دودھ میں ڈالاجاتا ہے۔ الآزین و الازافی و الازفی - ایک قسم کا دانہ جو دودھ کو پیئر بنا دیتا ہے۔ الآزون - زہر اور بقول بعض انجی کا بھیجا۔ الآزویۃ و الازویۃ - پہاڑی بکرا مذکر و مؤنث ہر دو کے لئے سنی مستعمل ہے ج: آراوی و آراو و آروی۔ آرمی (س) آریا - النعل: مکھی کا شہد بنانا۔ آری (س) آریا - صدرہ علی: غضبناک ہونا۔ آزی - الدابة: جانور کے لئے تھاننا - النار: آگ سلگانیا بھر کرنا۔ تآزبی - بالکان: اقامت کرنا - عنہ پیچھے رہ جانا۔ الآرمی - شہد کھانا جو دیگ کی تلی میں جل کر چپک جائے۔ الآزیتہ - جانور کا تھان آزت (س) آزاد و آزاد و ازیزا القدر: دیگی کا جوش مارنا، سنسانا۔ - القدر بہا: دیگی کا جوش میں لانے کے لئے اس کے نیچے آگ جلانا۔ آزہ علی کذا - بھڑکنا، اُکسانا، اُبھارنا - الشی: جمع کرنا۔ تآزمت - المجلس: اہل مجلس میں اضطراب و پلچ مچنا۔ اسم الآزۃ ہے الآزۃ - پھوڑے وغیرہ کا درد الآزیز - بادل کی گرج و گرج، ٹھنڈ، دوبچی کا کھد کھانا۔ آزب (س) آزبا - الماء: پانی کا بہنا الآزب - کینہ - پست قدم</p>
---	---	--



اَسْرَة (رض) اَسْرًا و اِسَارَةً - تسرے
باندھنا۔

اَسْرَة اَسْرًا و اِسَارًا و اِسْتَا سْرًا -
قید کرنا۔

اَسْرًا - علیہ: دیر کرنا
اِسْتَا سْرًا - اپنے آپ کو بطور قیدی کے
حوالے کرنا۔

اَلْاَسْرُ رَمَمَ، کہا جاتا ہے "هَذَا لَكَ بِاسْرَةٍ"
یہ سب کا سب تمہارے لئے ہے۔

اَلْاَسَارُ - تسرہ۔ بایاں۔ چپ
اَلْاُسْرُ - پیشاب کا رکن۔

اَلْاُسْرَةُ - خاندان۔ مضبوط زرہ۔ ج: اُسْرُ
اَلْاُسْرُ - قیدی ج: اُسْرُ و اُسْرَاءُ
و اُسَارِی و اَسَارِی -

اَلْاُسْرُب و اَلْاُسْرُوب و اَلْاُسْرُب
سیہ۔

اَلْاُسْطَبِلُ - اصطبل۔ ج: اصطبلات
اَلْاُسْطُرْلَاب - ایک قسم کا آلہ جس سے
ہیئت و ان ستاروں کی بلندی کا اندازہ
لگاتے ہیں۔

اَلْاُسْطَقِيس و اَلْاُسْطَقِيس - اصل جڑ
مادہ۔ ج: اَلْاُسْطَقِيسَات - قدامت کے
نزدیک یہ خفا مراد لہجہ کا نام ہے۔

اَلْاُسْطُورَةُ - قصہ۔ حکایت۔ ج:
اَسْطَاطِيدُ -

اَلْاُسْطُولُ - جنگی جہازوں کا بیڑہ۔ ج:
اَسْطَاطِيلُ -

اَلْاُسْطُوَانَةُ - ستون کھمبہ۔ جانور کی
ٹانگہ۔ ج: اَسْطَاطِين و اَسْطَاطِنَةُ،
کہا جاتا ہے "هوَ اَسْطَاطِينُ الزَّمَانِ"

وہ لوگ زمانہ کے حکماء اور ممتاز افراد ہیں۔
اَسْفَ (س) اَسْفًا - علیہ: کسی پر ممکن ہونا
افسوس کرنا۔ صفت: اَسْفَ -

اَسْفَه اِلِيسَافًا - غصہ دلانا، ممکن کرنا۔
تَاَسَفَ - افسوس کرنا، تَاَسَفَتَ يَسِفُ -

اَلْاُسُ - چوھے میں تھوڑی راہ
اَلْاُسَاسُ - چنل خود

اَلْاُسْبُ - زانو کے بال۔ اندام نہانی کے بال
دُبر کے بال۔ ج: اَسَابُ

اَسْبَانَاخ و اَسْفَانَاخ - پاک
اَسْبِيدَا ج و اَسْفِيدَا ج - کاشتچی سفید

اَلْاُسْتُ - جڑ، بنیاد، سرین
اَلْاُسْتَاذُ - معلم۔ مہر۔ عالم۔ ج:

اَسَاتِيذُ و اَسَاتِيذُ - اور با صلا
تجارت محکمہ جات حساب کا افسر علی۔
اَلْاُسْتُ - جڑ۔

اَلْاُسْتَارُ - عددیں چار اور وزن میں ساڑھے
مشتاق۔ ج: اَسَاتِيذُ -

اَلْاُسْتَبْرُقُ - موٹا ریشمی کپڑا۔ ریشم اور سونے
کے تاروں کا بنا ہوا کپڑا

اَسْدًا (س) اَسْدًا و اَسْدًا و اَسْدًا
اَلْاُسْدَا - الکلب البصید: شکار

کے لئے کتے کو اُگسنا، بھڑکانا
اَسْدًا - بین القوم۔ لوگوں میں فساد و ان

اَسْدًا (س) اَسْدًا - شیر کو کچھ کرنا
باختہ ہونا، اور دہشت زدہ ہونا۔

اخلاق میں شریک طرح ہونا۔ علیہ:
جرات کرنا۔

تَاَسَّدًا و اِسْتَا سَّدًا - شیر کے مانند
ہونا، علیہ: جرات کرنا۔

اِسْتَا سَّدًا الثَّبْتُ: نبات کا انتہائی لمبا ہونا
اَلْاَسْدُ - شیر، نہ تو یہ مادہ ہر دو کے لئے

مستعمل ہے، کہا جاتا ہے ہوا اَلْاَسْدُ
ہی اَلْاَسْدُ۔ ج: اُسْد و اُسْد

و اُسْد و اُسْد و اُسْد مادہ کو کثرت
کہتے ہیں۔

دَاعُ اَلْاَسْد - جذام
اَلْمَا سَدَاة - وہ جگہ جہاں شیر بکثرت ہوں

یا پائے جاتے ہوں۔ ج: مَاسِدُ
اَلْاَسَاذَةُ - تکیہ۔

کاٹنا۔ الحیل: رسی کو مضبوط بننا۔
اَلْمَهْرُ علیہ: زمانہ کا سخت ہونا۔ لصاحبه:

ساتھ ساتھ رہنا۔ چٹا رہنا۔ عن الشی:
کسی چیز سے رُک جانا۔ علیہ: حفاظت کرنا

تَاَذَرُ - القوم: لوگوں کا ٹٹلی اور قحط سالی میں
بتلا ہونا۔ زمانہ کی سختی سے دردمند

اور دکھی ہونا۔
اَلْاَزْمُ و اَلْاَزْمَةُ و اَلْاَزْمُ - کچی

نوکھار دانت۔ ج: اَزْمُ و اَوَا زْمُ
و اَزْمُ -

اَلْاَزْمُ - پرہیز کرنے والا۔
اَلْاَزْمُ - پرہیز۔ کہتے ہیں "اَصْلُ كُلِّ دَوَاءٍ

اَلْاَزْمُ" یعنی ہر دوائی کی جڑ پرہیز ہے۔
اَلْاَزْمَةُ و اَلْاَزْمَةُ سختی، تکیہ، قحط،

ج: اَزْمُ و اَزْمُ و اَزْمَاتُ و اَوَا زْمُ
اَلْمَا زْمُ - تنگ مقام، میدان جنگ۔ ج:

مَازْمُ
اَزْمُ مَوَا زَاةً - الرجل: ایک کا دوسرے

کے مقابل اور قریب ہونا۔
تَاَزْمُ تَاَزْمًا - القوم: ایک دوسرے کے

قریب ہونا۔
تَاَزْمُ - عنہ: مرطنا

اَزَاعُ - مقابل، سامنے، کہا جاتا ہے۔
"جَلَسَ اَزَاعًا وَاِذَا اَتَتْهُ" وہ اُس

کے مقابل بیٹھا۔
اَزَاعُ الْاَمْرِ - کام کا منتظم، کہا جاتا ہے

"هُمْ اَزَاؤُهُمْ" وہ لوگ اُن کے
مماثل ہیں۔

اَسَّ (ن) اَسًّا - الذار: گھر کی بنیاد رکھنا
- بین الناس: لوگوں میں فساد برپا کرنا

اَسَسَ - البیت: گھر کی بنیاد رکھنا۔
تَاَسَسَ - بنیاد پرنا۔

اَلْاَسُّ و اَلْاَسُّ و اَلْاَسُّ - ج: اَسَّاس
و اَلْاَسَّاس و اَلْاَسَّاس - ج: اُسَّس
و اَسَّاس - بنیاد، کسی چیز کی ابتداء۔

ہاتھ پھٹ جانا، کہتے ہیں ”یا اسفٰی و
اُسفٰی علیٰ کذا“ یعنی مجھ کو اس کے کھو
جانے پر کس قدر حسرت و اندوہ ہے۔
الْاَسْفُوفُ - جلد غلگین ہونے والا، نرم دل
الْاَسِیْفُ - غم گین، وہ شخص جو مٹا نہ ہوتا ہو
جاءَ اُسْفَاؤُ مَوْتِ اَسِیْفَةٍ - (ارض
اَسِیْفَةٍ وَاَسَافَتِ) - بنجر زمین کاشت
کے لئے ناموافق زمین۔

الْأَسِيفُ: قیدی۔ حدیث میں ہے "لَا تَقْتُلُوا عَسِيفًا وَلَا أَسِيفًا" مزدور اور قیدی کو قتل مت کرو۔

الْأَسَافَةُ - افسوس، زمین کی نرمی
 الْأَسِيفَةُ - باندی
 الْأَسْفَنَجُ - اسپنج - واحد: اسْفَنْجَةٌ
 الْأَسْفَنْدُ - اسپند، سفید رانی
 الْأَسْقَنْقُورُ - و السَّقَنْقُورُ - ایک
 ریگینے والا جانور جو گرم ممالک میں ہوتا ہے
 یہ گرگٹ سے بڑا اور موٹا ہوتا ہے اور لوم
 چھوٹی لھکتا ہے۔

الانسلکتہ - بحر دم کا بندرگاہ ہے، اساکل
اسئل رک اسالۃ و اسئل رس اسلاۃ
نرم و مہوار ہونا، دراز ہونا، چکن ہونا صفت
اسیئل، مؤنث : آسیئلکۃ -
اسئل - الرحم - نیزہ کو تیز کرنا، انہی کی مانند
بنانا -

تَسْلَ - ۵: اخلاق و عادات میں کسی کے مشابہ ہونا، کہا جاتا ہے ”هو علي آسالي من ابیه“ وہ اپنے باپ کے مشابہ ہے۔ اسال کا مفرد نہیں آتا۔

الْأَسَل - پتلی اور لمبی شاخوں والا ایک پودا
واحد: اُسْلَة نیزہ اور ہتیز اور پتلا لومہ۔
مثلاً تلوار اور چھری وغیرہ۔

الاسکلتہ - زبان کی نوک، بازو کا انگوٹھا
الاسم - مادہ سم میں تلاش کیجئے
اسامۃ - شیر کا علم جنس ہے۔

اَسْنَن (نض) اَسْنَا وَاَسُونَا وَاَسِنَ
(س) اَسْنَاوْنَا سَنَ الْمَاءِ - پانی
کا متغیر ہونا، صفت: اَسِنَ

تَاسَنَ وَدَا - دوستی کا بدل جانا -
تَاسَنَ آبَا - باپ کے اخلاق اختیار کرنا
اَسَنَ دس - اَسَنَا - الرجل: سڑے ہوئے
پانی والے کنویں میں داخل ہونے سے پیش
ہو جانا، یا سر کا چکر انا - صفت: آسنی

الأسن - بقیہ چرنی، ج: آسان
الأسن - آثار قدیمہ - کپڑے کے بچے اور
بوسیدہ حصے۔

الاسن - رستی کی لڑی - جر: اُسوت
اسارن، اسوا و اسا - البحر: زخم کی
ددا کرنا - مایوسوں کا علاج کرنا —
الرجل: کسی کو تسلی اور دلاسا دینا، صفت
مفعولی: اسی و ما ستو — بینیم
لوگوں کے درمیان صلح کرانا — لا بطلان؛
کسی کو کسی کے لئے نوز نہانا -

اَسْتِثْنَاءِ سَبِيَّةٍ - الرجل: کسی کا علاج کرنا،
تسلی دینا، مدد کرنا۔

آسی مواساۃ۔ الرحیل فی مالہ کسی کے ساتھ مالی ہمدردی کرنا۔

آسیتہ بنفسی کسی کو اپنے برابر سمجھنا
تأثی - صبر کرنا، تسلی کرنا۔ واٹھنی بہ
کسی کی پیروی کرنا، اقتداء کرنا۔

تاسی القوم۔ ایک دوسرے کو تسلی دینا
الْأُسُوَّةُ وَالْإِسْوَةُ۔ اقتداء، نمونہ، وہ
چیز جس سے تسلی حاصل کی جائے۔ ج:
أُسُوًى وَاسِئًى۔

الإِسَاءُ - دَوَا، ج: آسِيَه
الإِسْوُ - دَوَا -

الآسني - طبيب، معالج - ج: أساة و
إساءة، مؤنث: آسيه - ج :

آسِیَاتِ دَاوَاِیِ -
الْاَسْوَانِ - غَمْکِیْنِ -

التأساء - تعزیه ، تسلی -
الأساء - صبر

آسی (ض)، آسیا۔ لہ من اشی کسی کے لئے
کسی چیز میں سے کچھ راقی پھوڑنا۔

اسی (س) آسے - غم کیں ہونا - صفت :
آہی و آسبان ج : اسیانوں -

مُوت: اِسِيَّهٖ وَاِسِيَّانَهٗ - ج: اِسِيَّانًا وَاِسِيَّيَاتٍ وَاِسِيَّيَا -

الاسیہ - سنون ج: اداسی کہا جاتا ہے
 "مملکت ثابت الاواسی" مضبوط سلطنت

الْأَشْشُ - سوکھی روٹی

درخت کا گنجان ہونا، گھنا ہونا۔ صفت،
اکٹھ۔

اَشْبَهَ (ن من) اَشْبَاهًا۔ ملامت کرنا۔ عیب گیری کرنا۔ القوم: بعض کو بعض کے ساتھ ملانا، مختلف لوگوں کو ملا کر گردہ بنانا۔

تَاشَبَّ - وَامْتَشَبَ - القوم: لوگوں کا ایک دوسرے سے مل جانا۔

الْأَشْبَابُ - درختوں کی ایسی کثرت کہ اُن میں گزرا نہ جاسکے۔

الْأَشَابِہِ۔ لوگوں کا مخلوط کردہ۔ جہ;
اَشَابِیَّت۔ وہ کمائی جس میں حرام ملا ہو

نَسَبٌ مَا شَوَّبَ وَمُوْتَشَبٌ غَيْرُ نَاسِلٍ

أَشْرَسَ (س) أَشْرَأَ مَعْرُوفًا، الرُّطَانُ
صَفَتِ: أَشْرَدَ وَأَشْرَدَ أَشْرَانِ - ج:

اِسْرَتِ وَاَسْرَتِ وَاَشَارِي وَ
اُشَارِي -

اَسْتَرَّ الْاَسْنَانَ - دانت تیر کرنا۔

واحد: اُسٹرکا۔
الآسٹر۔ مڈی کے پاؤں کا کاٹنا۔ مڈی کے



والاصیل - بغیر کیل کے خود لین دین کرنی والا
الاصیلۃ - جڑ والی، "جاء اباصیلہم"
وہ تمام کر لے آئے۔

الاصلۃ - ایک قسم کا سانپ ج۔ اصل
اصن رن ض) اصنا - الیہ: محبوب رکنا۔
مضطر کرنا - فلاناً: تھکانا۔

اِثْتَصَّ الیہ: پناہ لینا، مضطر ہونا۔
الاصن - اصل جڑ، کہا جاتا ہے "فلان کریم"
الاصن - فلاں شریف الاصل ہے۔

الاصاص - پناہ لینے کی جگہ، عین، سوزش
الاصاۃ - تالاب، جوہر ج: اضی و
اضیات -

الاضاءۃ - خربوزہ کی فالیز، بید کا جنگل۔
اصحہ رس) اصما - علیہ: غضبناک ہونا۔
— بہ: تکلیف پہنچانے لگنا۔

الاضام - کینہ، حسد، غصہ ج اصمات
اطر (ض) اطمینا - آواز نکالنا، کرکنا،
چرچانا — الاہل: اونٹ کا بولنا۔

کہا جاتا ہے "ہم اہل اطمین و ہیل"
وہ اونٹ اور گھوڑے رکھتے ہیں۔

اطرہ (ض ن) اطرا و اطرہ - موڑ دینا
غم دینا، دوہرا کرنا

اناطی - مرطنا
تاطی - دوہرا ہو جانا

الاطیر - گناہ کہا جاتا ہے "اخذہ بالظہر"
غیرہ "اس نے اس کو دوسرے کے قصور
میں پکڑ لیا۔

الاطار - چوکھا، گھبرا، یا جو چیز کسی شے کو
گھیرے جیسے دت اور چھپی وغیرہ کے چوکھے
ج: اطر۔

الاطل والاطل - ج: اطلال والایطل
ج: ایاطل - کرکھ، پہلو۔

اطم - الاطام - قلعوں کو بلند کرنا
تاطم - السیل: سیلاب کی موجیں بلند انہیں
— التار: آگ کی لپیٹ ادبھی ہوئی۔

الاصرو والاصرو والاصی - عہد و پیمان -
بوجہ گناہ - ج اصار

الاصار - ج: اصرو والایصر - ج:
ایاصرو والاصارۃ - خیمہ کی رسیوں
کا کھونٹا یا کیلا۔

الاصیرۃ - رشتہ، تعلق، مہربانی - ج:
اواصر -

اصطبل - اصطلب
الاصطوانہ - ستون، کھمبا، جانور کی
ٹانگ - ج: اصاطین واصاطنۃ

الاصطقلین کا ج - واحد: اصطفیلینۃ
الاصطکمۃ - رکھیں کی ہوئی روٹی -
الاصف - ایک قسم کی خاردار جھاڑی

الاصل رن) اصالۃ - جڑ والی ہونا
جڑ پکڑنا - شریف الاصل ہونا —
رأیہ: کسی کی رائے کا اچھا ہونا صفت،

اصیل -
اصل رس) اصلا - المار: کچھڑ کی دہرے
متغیر ہونا - اللحم: بودا ہونا۔

اصللہ - جڑ والی بنانا، اصل بیان کرنا۔
شرافت بیان کرنا۔

اصل ایصال - شام کے وقت میں نخل
ہونا، بوقت شام آنا۔

تأصل - جڑ پکڑنا، جڑ والی ہونا۔
استأصل - الشی: کسی شے کو جڑ سے کھینچنا

استأصلت الشجرۃ - درخت کا
جڑ پکڑ لینا۔

الاصل جڑ، فرع کا مقابل، والذ: مصدر
منبع "ما فعلتہ اصلا" میں نے
اس کام کو قطعاً نہیں کیا۔ ج: اصول

والاصول - وہ اصول و قواعد جس پر کسی علم
کی بنیاد ہو۔

الاصیل - عصر و مغرب کا درمیانی وقت
ج: آصال و اصائل و اصل

و اصلان -

دم کے سرے کی گرہ - ج: ادا شیر
التاشیر - ٹڈی وغیرہ کا وہ عضو جس سے

وہ کانٹے کا کام لے ج: تاشیر۔
المیشار - آرہ ج: مآشیر و مواشیر
الاشفی - ستالی - ج: آشافی -

الاشقیل - ایک پودا ہے جو دوا کے طور
پر استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کو ہیل
الفار بھی کہتے ہیں۔

الاشنتہ - ایک قسم کی بھائی شے ہے،
جو درختوں اور پتھروں پر پیدا ہوتی ہے
الاشنان والاشنان - ایک قسم کی

بونی جس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔
أص - الشی: مضبوط کرنا۔

أصص - الشی: مضبوط کرنا
تأصصوا و انتصوا - جمع ہونا اور بھیر کرنا

الاصیص - ٹوٹا ہوا برتن، گلد، پیشاب
کا برتن -

الاصیصہ - پاس پاس کے یا گرد و پیش
کے مکانات

أصد و أصد - الباب: دروازہ بند کرنا
و أصد - چھوٹی قمیص پہنانا۔

الاصداۃ - چھوٹی قمیص، کرتی - ج
• أصد و أصداد -

الاصداۃ - قوم کے جمع ہونے کی جگہ -
ج: اصد

الاصید - صحن خانہ
الاصاد - طبق - چوکھٹ

أصر (ض) اصرا - الشی: توڑنا -
الخیمة: خیمہ کے لئے میخ بنانا -

فلانا علیہ: مہربان بنانا۔
أصرۃ مواصرۃ - پڑوسی ہونا

تأصروا - باہم پڑوسی ہونا۔
أنتصر - القوم: لوگوں کا تعداد میں زیادہ

ہونا - النبات: گھاس کا لمبا اور گنجان
ہونا۔

— علیہ، بڑا بنا، مضنیک ہونا

الْأَطْمُ تلمہ۔ ج: آطام

الْأَطْمُ۔ پانی میں رہنے والا ایک بے پاؤں کا جانور جس کا پھیلا حصہ مچلی کے مشابہ ہوتا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً آٹھ قدم کی ہوتی ہے اور اس کا نام سمندری کھوہ ہے ج: اُطْم وَاَطْمَہ۔

الْأَطْمِیْہ۔ چولہا۔ ج: اُطَامِیْم۔

أَقَتْ (ن من) أَقَا وَتَأَقَّتْ وَاقْتَفَ

کرب و بے قراری میں اُت ان کہنا۔

الْأَقْفَ۔ بے قراری و بے چینی، وقت

الْأَقْفَ۔ ناخنوں کے کٹے ہوئے ریزے،

کان کا میل۔

أُقْتُ۔ اسم فعل یعنی میں ناپسند کرتا ہوں۔

بے قرار ہوتا ہوں۔

الْیَا فُوفَ۔ شیر کا بچہ، کرٹو، کھانا، تیز رفتار

ج: یَا فُیْفَ۔

الْیَا فُوفَہ۔ پروانہ

الْأَقَاتَ۔ بہت اُنی اُنی کرنے والا

أَفَحَہ۔ کسی کے تالو پر مارتا

الْیَا فُوفَ۔ بچہ کے سر کا وہ نرم حصہ جو حرکت

میں رہتا ہے، تالو۔ ج: یَا فُیْفَہ۔ کہا

جاتا ہے "ضَرْبَ یَا فُوفَہ اللَّیْلِ"

رات کے اوّل حصہ میں چلا "رَکِبَ

یَا فُوفَہ فُلَانٌ" وہ فلاں پر غالب و

برتر رہا۔

أَفْدَ (ر س) أَفْدَا جلدی کرنا۔ صفت:

أَفْدَا

اِسْتَفْدَا۔ التَّحَلُّ۔ کوچِ قریب آجانا

الْأَفْدَا۔ مدت، غایت

الْأَفْدَاہ۔ دیر، تاخیر۔

الْأَفْرِیْجَ وَالْأَفْرِیْجَہ وَالْفَرْیْجَہ۔

یورپین۔

أَفْرَ (ر من) أَفْرَا وَأَفْرَمَا۔ خدمت کرنے

میں جیتی دکھانا۔ القوم: دھتکارنا،

دفع کرنا۔

أَفْرَسَ (ر س) أَفْرَا۔ البعیر: لاغری کے بعد موٹا ہوا

الْأَفْرَہ۔ جماعت۔ بلا۔ سختی۔

الْمُفْرَہ۔ خادم۔ خدمت میں تیز لوکا۔

أَفْرَضَ (ر ض) أَفْرَا۔ کوٹنا، اُچھلنا۔

الْأَفْرِیْیْنِ۔ ایک قسم کی کر دی بنائی

دوا۔

أَفَقَّ (ر ض) أَفَقًّا۔ کناروں میں جانا آفاق

میں جانا۔ الجلد: چرٹہ رنگنا۔

صفت مفعولی: أَفِیقَ۔ ج: آفَقَہ

وَأَفَقَّ۔ انتہا تک پہنچنا۔ صفت:

أَفِیقَ وَأَفِیقَ۔

أَفَقَّ۔ طریق، راستہ کا درمیانی حصہ

الْأَفَقَّ وَالْأَفَقَّ۔ کنارہ کنارہ آسمان

جو زمین سے لگا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

ہواؤں کے چپنے کی جگہ۔ ج: آفاق۔

الْأَفِیقَہ۔ رگی ہوئی کھال

الْأَفَاقَ۔ کہانے کی خاطر بہت سفر کرنا

الْأَفَقَہ وَالْأَفِیقَہ۔ پہلو، کوکھ

الْأَفِیقَ۔ چرٹے کا بڑا ڈول

أَفَكَ (ر من) أَفَكَ وَأَفُوكَا وَأَفَا

(ر س) أَفَكَ وَأَفَا۔ جھوٹ بولنا۔

صفت: أَفِیکَ۔ ج: اُفُوکَا وَأَفُوکَ

ج: اُفُوکَ وَأَفَا۔ ج: اُفَا کوون

وَأَفَلَہ اِفْکَا۔ عن رائیہ کسی کو اپنی رائے

سے پھیر دینا۔

أَفَلَکَ المکان کسی جگہ کا بے بارش والا ہونا

أَفَلَکَ الرَّجُلُ کسی کا ضعیف العقل ہونا

اِسْتَفَلَکَ البَکْدُ بِأَهْلِیْہ شہر کا اٹ جانا

— الارض: زمین کا خشک سال سے

جل جانا۔

الْإِفْلَکُ وَالْإِفْلَکَہ وَالْإِفْلَکَہ جھٹ

أَفِیکَ کی جمع أَفَاکِکَ

الْإِفْیَکَ وَالْهَافُوکَ۔ غیر و بھلائی

سے محروم، کمزور عقل و رائے والا۔

الْأَفَلَکَ۔ من السنین۔ خشک سال۔

ج: أَوَاکَ۔

الْمُؤْتَفِکَاتُ۔ مختلف سمت چلنے والی

ہوائیں، وہ بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ

نے مع اُن کے بسنے والوں کے اُٹ دیا

أَفَلَ (ر ض) وَأَفَلَ (ر س) أَفُولًا۔ العر:

چاند کا غروب ہونا۔ صفت: أَفَلَ

ج: أَفَلَ وَأَفَلَ کہا جاتا ہے کہ

فلان کعبہ سا فل ونبجہ آفل۔ وہ

وہ شخص پھوٹی قسمت ہے۔

أَفَلَ (ر ض) أَفُولًا وَأَفَلَ (ر س) أَفَلًا

المرجل: خوش و شادماں ہونا۔ الموضع:

دودھ کا ختم ہو جانا

أَفَلَہ۔ تنظیم کرنا۔

تَأَفَلَ۔ تکبر کرنا۔

الْأَفِیْلَ۔ اونٹ کا بچہ۔ ج: اِفَال و

أَفَاغِلَ۔ مونسٹ اَفِیْلَہ

أَفَنَ (ر ض) أَفَنًا۔ النافۃ: اونٹنی کی برکت

دوہنا۔ اللہ فلانا: اللہ کا کسی کو

ضعیف العقل بنا دینا۔

أَفِنَ (ر س) أَفَنًا وَأَفِنَ۔ کمزور رائے

والا ہونا۔ صفت: أَفِیْن و مَا فُون

تَأَفِنَ۔ تکلف کسی عادت کو اختیار کرنا

کم ہونا، ناقص ہونا۔ اوآخر الامور

انجام کار کی فکر کرنا، نتائج پر نظر رکھنا

الْإِقَانَ۔ وقت، کہا جاتا ہے "جَاءَ فِی

إِقَانٍ ذَلِکَ" وہ اس کے دوران میں آیا

الْأَفُودَ۔ وہ لباس جو علمائے یہود کا سرور

پہنا کرتا تھا۔

الْأَفِیُون۔ افیم

الْأَقَا قِیَا۔ ایک قسم کی دوا، درخت لیکر

کار س۔

الرُقَہ۔ رطل کا نصف ج: اُقَق

الْأَفُوحَانُ وَالْفُوحَانُ۔ بالونہ۔ واحد

أَفُوحَانُہ و فُوحَانُہ۔



ج: آقاجی و آقاح "آقاجی الامر"
کسی امر کا آغاز۔
الاقط والاقط والاقط والاقط
والاقط والاقط۔ پیر
اقط۔ پیر کا لکڑا۔
الاقشاق والاقشاق۔ ایک خوبصورت
پتوں والی گھاس۔
اکد و کد۔ العبد والسر: مضبوط کرنا، مضبوط باندھنا۔ الشی: ثابت کرنا۔
تاکد و توكد۔ ثابت ہونا، مضبوط ہونا۔
الاکید۔ مضبوط، محکم، ثابت۔
الاکید والاکید۔ وہ قسمیں جن سے
زمین کے آگے کے حصے کو باندھتے ہیں۔
اکردن، اکردا۔ الارض: زمین کو
پھاڑنا اور اس میں کاشت کرنا۔
الاکار۔ کاشت (ارج)، اکرة و
اکارون۔
الاکرة۔ گنبد، گڑھا ج: اکرد
اکت و اکف ایگافا۔ لہار، گڑھے
پر پالان کشتا۔ الاکف: پالان بنانا
الاکاف۔ پالان، ج: اکف و
اکفہ
الاکاف۔ پالان بنانے والا، لال
بیچنے والا۔
اکل (ن)، اکلا و ماکلا۔ الطعام، کھانا
الشی: بنانا کرنا
اکلہ (ن)، اکلا و اکالا و اکالا۔
رأسہ: سر کھلانا۔
اکل (ن)، اکلا و تاكل۔ السن او
العود: دانت یا لکڑی کا کھوکھلا ہونہ
کر کر جانا۔
اکلہ و آکلہ ایگالا۔ الشی: کسی کو کچھ
کھلانا۔

آکلہ موالکة۔ ساتھ کھانا کھلانا۔
اکتکل۔ بعض کا بعض کو کھانا۔
من الغضب: غصہ سے جل اٹھنا،
غصہ میں جل بجھ جانا۔
اکتکت التار۔ آگ کا سخت بھڑک
اٹھنا
اکتکلا۔ الشی: کھانا تیار کرنے کو کہنا
کہا جاتا ہے "فلان یستاکل"
الصنعاء: یعنی فلاں شخص ضعیفوں
کا مال ہڑپ کر جاتا۔
الاکل والاکل۔ پھل، خوراک،
کشاہ روزی
الاکلة۔ لقمہ، غنیمت۔
الاکلة۔ خارش، غنیمت کھانے
کی سمیت۔
الاکلة۔ خارش
الاکلة۔ عضو کو کھانے والی بیماری
یا زخم۔
الاکال۔ کھانا۔ اسی سے ہے "مازنت"
اکالا۔ میں نے کچھ نہیں کھیا۔
رؤکال۔ خارش۔
الاکال والاکیل والاکول و
الاکلة۔ بہت کھانپنا، پیو۔
الاکولة۔ بکری جو کھانے کے لئے موٹی
کی جائے۔
الاکولة والاکیل۔ بکری جو بھیڑیے
وغیرہ کے شکار کے لئے کھڑی کی جائے۔
الماکلی۔ خوراک ج: ماکلی
الماکلة۔ جو چیر کھائی جائے۔ خوراک
الماکلة۔ چھوٹا پیالہ
الماکال۔ چمچہ ج: ماکیل
الماکول۔ خوراک ج: ماکیل
استکمل۔ الموضع: ٹیلہ بن جانا۔
الاکلة۔ ٹیلہ ج: اکمل و اکمات
ج: اکام و اکمل و اکام۔

الماکمل والماکلة۔ سرین کا گوشت
الماکول۔ غنمیں
الاکلة۔ آشیاہ
الاکاء۔ مشک وغیرہ کا سرہند۔
اکل (ن)، اکلا۔ دستاویز لینا
ال حرف تعریف ہے، کبھی عہدی ہوتا ہے
جیسے کہتے ہیں "اشتريت عبداً ثم
بعثت العبد"، یعنی میں نے ایک غلام
خریدا اور پھر اسی غلام کو بیچ دیا۔
اور کبھی جنسی جیسے "خلق الإنسان
ضعیفاً"، یعنی انسان ضعیف و کمزور
پیدا کیا گیا ہے۔
اور سبھی اسم موصول کے معنی دیتا ہے جب
کہ یہ اسم فاعل و اسم مفعول پر داخل
ہو۔ جیسے "جاء فی الضارب والمضروب"
آل (ن)، آلا۔ نیزے سے مارنا دھنکارنا
الرجل: جلدی کرنا۔ المون:
رنگ کا صاف و چمکنا ہوتا۔
آل (ن)، آلا و آلا و آلا۔ الرین،
بیمار کا کرہنا۔ الرجل فی دعاء:
کسی کا اپنی دعا میں گڑ گڑانا۔
آل (ن)، آلا۔ الانسان: دانٹوں
کا خراب ہو جانا۔
آل۔ الشی: کسی چیز کو دھار دار بنانا۔
یا نوکدار بنانا۔
آل۔ عہد، اقرار، پڑوسی، اچھی صل
و دشمنی، کینہ۔
آل۔ آہ و زاری۔
آل۔ برہی، لڑائی کے ہتھیار۔
آل۔ تیز رفتار گھوڑا۔
آل۔ نالہ و زاری کرنے کی ہیئت۔
آل۔ قربت ج: اکل
آل۔ مویشی جس کی چراگاہ دور ہو۔
ج: اکل
آل۔ مویشی جس کی چراگاہ دور ہو۔

الّا - یہ حرف شروع کلام میں آتا ہے اور اپنے مابعد کے مضمون پر زور دیتا ہے اور اس کے تحقیق کو ثابت کرتا ہے جیسے ”الّا اِنَّهُمْ هُمُ السّٰفِهَآءُ“ خبردار ہو کسی بے وقوف ہیں۔

حرف تنبیہ بن کر آتا ہے، جیسے ”اَلَا یَا
صَاحِبِ قُمِّ“ خبردار اے ساتھی کھڑا ہو جا
یا حرف عرض ہوتا ہے، جیسے ”اَلَا تَتَذَوَّلُ
یٰنِیََا“ کیا آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے؟
یا تقصیص کا کام دیتا ہے جیسے ”الانتوب
و ترشد عن غیث“ خبردار تو بہ کر اور
اپنی گمراہی سے باز آ جا،

اَلَّا - حرف تخصیص بن کر آتا ہے جیسے ”اَلَّا تَکْذُرُ اَبُو یُثْرِیْمَ“ تو اپنے والدین کی عزت کیوں نہیں کرتا۔

الّا - حزن استثناء جیسے ”جاء القوم الاّ زیداً“ یعنی زید کے علاوہ سب قوم آئی اور کبھی صفت کے لئے غیر کے معنی میں آتا ہے جیسے ”لی رجال الاّ رجالاً“ ”بیر آدمی تیرے آدمیوں کے علاوہ ہیں۔“

اور کبھی نفی کے بعد حصر کے لئے آتا ہے جیسے
 ”مَا صَرَبَ إِلَّا زَيْدًا“ ”زید نے ہی مارا
 اَلْب (ن ص) اَلْبَاو تَا لَب۔ اکٹھا ہونا
 جمع ہونا۔

اَلْبَ (ض) اَلْبَا وَاَلْبَ جمع کرنا
اَلْبَ - بینہم : لوگوں میں فساد برپا کرنا۔
اَلْبَ عَمی ایک شخص کی عداوت پر جمیع ہونے
والی قوم کہا جاتا ہے "ہم علیّ اَلْبَ
واحد" کہ وہ سب میری عداوت پر متحد
و متفق ہو گئے۔ انگشت شہادت اور
انگوٹھے کے درمیان کا فاصلہ۔

الْأَلْب - بکری کے تپڑ کی کھال - زہر بنجارہ
کی شدت - گرمی کی شدت - پیاس بھڑک
کے اچھے ہونے کی ابتداء -
الْأَلْبَة - بھڑک

الْأَلُوبُ: سر و ہوا جو خاک کو اڑائے۔
 ”رَجُلٌ أَلُوبٌ“ ڈول کو جلدی نکالنے

والامر

المُثَلَّب - تیز رفتار
آلت - (رض) التَّوَالَتْ اَيْلَاتَا
الرجل حقہ؛ کسی کے حق میں سے گھٹانا۔

— اَلتَّ شَيْءُ كُھُنَا (لازم و متعدی)
اَلتَّه یَمِیْنًا - کسی کو قسم دانا -

—الرجل: کسی کو اس کے ارادہ سے پھیرنا اور باز رکھنا۔

الْأَلْتِ - قصور اعطیہ گذرے ہوئے
واقعہ رہی ہوئی قسم۔

الَّذِي اسْمُ مَوْصُولٍ، تثنية. الَّذَانِ
ج: الذَّيْنِ وَالَّذَوْنِ تصغير: اللّٰذِيَا

وَاللَّذَيَّانِ وَاللَّذَيُّونَ - مَوْتٌ:
الَّتِي ج: اللّوَاتِي وَاللَّاتِ وَاللَّائِي

تثنية اللتان تصغير: اللتي واللتيان -
التراديف (ض) الزا - لازم ههنا -

چمٹ جانا۔
الزَّائِرُ (س) الزَّائِرُ۔ بے قرار ہونا۔

السنة (من) المسا - حيات زنا - وهو
 وينا -

الأسد - دیوانہ ہونا - سخت مایوس
الأسد هو الأسد - عذر کرنا خیانت کرنا
الأسد - حنون - خیانت -

الأسس - دیوانگی -
الہالوس - دیوانہ - مختل دماغ -

المَالُوع - دیرانہ
اَلِف (س) اَلْفَا - مانوس ہونا محبت کرنا

صفت: الف - ج: آلف والیف
ج: الُف و آلف ج: الُف اور

اسم: أُلْفَة -
الف المكان وألفه ايلاقاً. كسى

حجگہ سے مالوس ہونا۔
 الفہرہ (من) الفہرہ۔ ایک مزار و نہار

آلفہِ الاقادمۃ الفیۃ۔ آپس میں محبت
پیار کے ساتھ رہنا۔

و آلفہ المکان ایلافاً۔ کسی کو کسی جگہ سے مانوس کر دینا۔

آلْفَمُ - ہزار بنانا۔
آلْفُو - ہزار ہونا۔

آلَف۔ الکتب: مسائل کو کتاب کی شکل میں جمع کرنا۔ الشئ: بعض کو بعض سے

ملانا — مبینہم : لوگوں میں الفت و محبت پیدا کرنا — المالف : پورے سزا کرنا

تَأْتُوا - جمع ہوئے۔ اکٹھے ہوئے۔
تَأْتِ الشَّيْءُ - چیز کا نظم و ترتیب میں آنا

تألفہ - بناوٹی دوستی رکھنا، اوپری
دل سے محبت کرنا۔

اَسْتَلَفُوا وَتَالَفُوا جمع ہونا۔
اِسْتَالَفَ دوست و ساتھی تلاش کرنا۔

الِآلِفُ وَالْأَلِفَةُ - دوستی - اُنس و محبت
الِآيَةُ - حروف تہجی کا پہلا حرف، ہر شے میں

سے ایک۔
الألف - ہزار ج: أَلْفٌ وَأَلْفٌ

الف - الطیر: ہر میں رہتے دے پند
الْأُفْقَة - الف (مزار) کی طرف منسوب
مزار اصطلاح میں اُس سے مزار اشارہ

مشتمل قصیدہ کو کہتے ہیں جس میں کسی فن کے اصول و قواعد بیان ہوں اگر مطلق

لفظ الفیہ بولا جائے تو اس سے الفیہ
بن مالک مراد ہوتا ہے جو علم نجد میں ہے۔

التَّائِيْلَاتِ - عہد پروانہ، راہبرداری۔
التَّائِيْلَاتِ - مصدر، کتاب

الاولف بہت محبت کرنے والا ہے۔
المالف جس سے لوگ الفت و محبت

رکھیں، لوگوں کی مرغب شے۔ ج :

مألف -

اعراض -

المؤلف - كتاب كامصنف، هزار کا مالک
التي (ض) القاوتاتی وامتلق -

البرق بجلی کا چمکنا، بجلی کا کوندنا
أَلْبَقِ - الرجل: بھوٹ ہونا۔

أَلْبَقِ أَلْقًا - دیوانہ و مجنون ہونا، صفت:
مُشَلَّقٌ وَمَأْلُوقٌ -

الْأَلْقِ - بھیڑیا، ج: اَلْقِ - بخلق
الأولق - جنون، دیوانگی۔

الْإِلَاقِ - بغیر بارش کے بجلی۔
الْأَلَقِ - بھوٹا۔

المألوق - دیوانہ

المشلق - بے وقوف

أَلَّتْ - (رض) اَلَا وَاَلُوکَة وَاَلُوکَا
وما لکَا وَاَلِکَ اَلَا کَتَّ: پیغام

پہنچانا۔
اِسْتَأْلَکَ - اَلُوکَتَہ کی غلط پہنچانے

لے جاتا۔
المَلَاکَ والمَلَاکَ - ج: مَلَاکَ

وَمَلَاکَتَہ - فرشتے
الْأَلُوکَ وَالْأَلُوکَة وَالْمَالِکَ و

المالکَ - پیغام ج: اَلَاکِثَ و
مَالِکَ -

المالکُوت - دیوانہ۔
أَلَمَ (س) اَلَمًا - دکھی اور درد والا ہونا

صفت: اَلَمٌ۔
أَلَمَہ تَالِیمًا وَاَلَمَہ اِبِلَامًا -

دکھ درد پہنچانا۔
تَأَلَمَ - دکھی ہونا، درد مند ہونا۔

الأَلَمَ - سخت دکھ ج: آلام
الأَلِیمَ - دردناک، دکھ اور تکلیف دینا

المَلَامَ - ہیرا۔
أَلَمَ (ر) اَلُوہَہ وَاَلُوہَہ و

أَلُوہِیَہ - بندگی کرنا۔
أَلَمَ (س) اَلَمًا - حیران ہونا، کہا جاتا

ہے "اَلَمْتُ عَلَیْہ" میں نے اس پر
بہت جزع و فزع کیا۔

پرستش کرنا۔

تَأَلَمَ - معبود بن جانا یا خدا ہونا

اِسْتَأَلَمَ - معبود سے مشابہ ہونا۔

أَلَمَ - معبود و خدا - ج: اَلَمَہ -
اَلَمَہ - ذات واجب الوجود کا نام اَلَمَہ

اے خدا - اے اللہ۔
اَلُوہَہ وَاَلُوہَہ وَاَلُوہِیَہ

وَاَلُوہِیَہ وَاَلُوہِیَہ -
معبودیت، خدائی۔

أَلَمَہ - بڑا سانپ - نیا چاند۔

اَلَمِیَہ وَاَلَمَہ - آفتاب۔

علم اَلَمِیَہات - وہ علم جس میں اللہ کی ذات
صفات سے بحث ہو۔

الْأَرَن، اَلُوَا وَاَلُوَا وَاَلِیَا وَاَلِیَا و
اَمْتَلِ - فی الامر کسی کام میں کوتاہی

کرنا۔ دیر لگانا، کہا جاتا ہے "لَمِیَال
جُہَدًا" اس نے کوشش کرنے میں کوتاہی

نہیں کی۔
اَلِی اِبِلَاءَ وَاَلِی اِبِلَاءَ - قسم کھانا

اَلِی اَلِی - بکری کی مینگنی۔
اَلِی وَاَلِی وَاَلِی وَاَلِی - اگر کوئی

ج: اَلِی وَاَلِی -
اَلِی وَاَلِی وَاَلِی وَاَلِی - قسم۔

اَلِی کی جمع اَلِیَا۔
اَلِی - بہت قسمیں کھانے والا۔

المِیَیَہ - وہ رومال جس کو نذر کرنے
والی عورت اپنے اچھے میں لے کر لاتی ہے

ج: مَالِ
اَلِی (س) اَلِی - دُنبہ کی چکی کا بڑھ جانا

صفت: اَلِی وَاَلِی - مؤنث:
اَلِی وَاَلِی - ج: اَلِی وَاَلِی -

اَلِی - دُنبہ کی چکی - مثنیٰ - اَلِی وَاَلِی
بغیر تہ کے - ج: اَلِی وَاَلِی -

اَلِی وَاَلِی وَاَلِی - نعمت مرہا

فضل - ج: اَلِی

الْأَلَمَ وَاَلِی - ایک ہمیشہ سبز رہنے والا
درخت جس کا پھل کھڑا ہوتا ہے۔ واحد

الْأَلَمَ

الْأَلَمِ - فوج کا دستہ - ج: اَلِی وَاَلِی
یہ ترکی کلمہ ہے عربی میں اس کے لئے فیلق

کا لفظ مستعمل ہے۔
اَلِی - حرف جر ہے، یہ کئی معنی دیتا ہے۔

انہمائے زمانہ کے لئے جیسے "درس الی
المساء" اس نے شام تک پڑھا۔

انہمائے مکان کے لئے جیسے "سَارَ اِلِی
الْبَیْتِ" وہ گھر تک گیا۔

عند کے معنی میں جیسے "کَلَامَہ اَشْهَی
اَلِی مِّن الرِّحْقِ" اس کی گفت و گو

مجھ کو شراب سے زیادہ مغرب و محبوب سے
لام کے معنی میں جیسے "الامر اِلَیْک"

معاملہ تبرے اختیار میں ہے۔ مع کے
معنی میں جیسے "ضم هذا الی ذاک"

اس کو اس کے ساتھ ملاؤ۔
اَلِی - اسم فعل ہے بمعنی اُبْعَد یعنی دور

ہو جا جیسے "اَلِی عَنی" تو مجھ سے
دور ہو جا۔ بمعنی حَذَّ رَلَّ جیسے

"اَلِی الکتاب" اس کتاب کو لے لے
اَلِی - اَدَلِ کے معنی میں آتا ہے جیسے العرب

اَلِی "قدمائے عرب - اَدلی - ام اشارہ
جمع قریب کے لئے ہے۔

اَلَمَ - حرف عطف ہے۔ یہ ہمہ استفہام کے
بعد برابری کے معنی میں آتا ہے جیسے اَلَمَ

اَلَمَ بَعِیدًا "اور کبھی بَل کے معنی ادا
کرتا ہے جیسے "هل یستوی الاعیٰی"

والبصیر امر هل لیستوی الظلمات
والنور"۔

اَلَمَ (ن) اَمًا وَاَمَمَ وَاَمَمَ وَاَمَمَ
قصد کرنا وَاَمَہ - دماغ پر صدمہ پہنچانا

امامة وَاَمًا وَاَمَامًا - القوم و

بالقوم: قوم کا امام بننا۔





اُمّت اُمومة - ماں ہونا
 تَامَم - المرأة - کسی کو ماں بنانا
 اُسْتَم - بہ - اقتدار و پیروی کرنا۔
 اُسْتَاقر - ا - کسی کو امام بنانا
 اُسْتَاقر - المرأة - کسی عورت کو ماں بنانا
 الاقر - والدہ - ماں کسی چیز کی اصل جہ
 اُمّات و اُمّہات - بعض کے نزدیک
 امات انسان کے لئے ہے اور اُمّات
 بہائم کے لئے۔ اُمّ القریٰ - مکہ معظمہ
 اُمّ الطریق - شارع عام اُمّ النجوم
 مکشاں اُمّ الزئبر و اُمّ اللہام
 وہ تھلی جس میں ومار لپٹا ہوا ہو ہے اُمّ
 المشری ہیری اُمّ عریط - بھو - اُمّ
 ارج و ارجین کھجور - اُمّ اذراس
 جنگلی چوہا مصیبت اُمّ البیض شتر مرغ
 اُمّ التنايف - دور کا جنگل - اُمّ
 تولب گدھی - اُمّ جاسر - ہرلیہ
 اُمّ حنّاب - ظم و بے انصافی - اُمّ
 الجحش ان گدھ - اُمّ الجیش - جھڑا
 اُمّ حباب - دنیا - اُمّ حبيب - گرگ
 اُمّ حرب - جھنڈا - اُمّ حفصہ - مرغی
 اُمّ حلس - گدھی - اُمّ الحباثت -
 شراب اُمّ الحثان - سختی اُمّ خلوس - بچہ
 اُمّ درن دنیا اُمّ درساہن - قحط زدہ
 سرزمین - اُمّ درناہ دنیا - اُمّ دقر - دنیا
 اُمّ دفار دنیا - اُمّ اشد چوہا -
 اُمّ الریبی - سختی - بلا - اُمّ الزمخ
 جھنڈی - اُمّ سمحہ - بکرا - اُمّ سوید
 ویر - اُمّ صبا - بلا - سختی - بلا
 اُمّ صبو - بلا سختی بلا اُمّ الصبیان
 ایک قسم کی بیماری جو بچوں کو لاحق ہوتی ہے
 اور جس سے بچے بیہوش ہو جاتے ہیں -
 اُمّ حلیق - سختی - سانپ - بلا
 اُمّ الطریق - شارع عام - اُمّ الطعام

معدہ - گیہوں - اُمّ عاصر - بچہ
 اُمّ عریط - بچہ - اُمّ عذرہ - دُبر
 اُمّ قردوۃ - بھڑ - اُمّ القرج - ایک
 قسم کا کھانا جو گوشت، پیاز اور شکر سے
 تیار کرتے ہیں اور بقول بعض ایک قسم کی
 روٹی جس میں پرند اور بکری کا گوشت بھر کر
 تنور میں پکاتے ہیں - اُمّ القرآن -
 سورہ فاتحہ - اُمّ قشعر - رانی
 مصیبت - بچہ - موت - کڑی اُمّ القوہ
 سوار قوم - اُمّ الکتاب لوح محفوظ
 سورہ فاتحہ یا کل قرآن پاک - اُمّ کلب
 ایک پہاڑی دشت کا نام - اُمّ کلبۃ -
 بخار - اُمّ مازن چیمبی - اُمّ المثنوی -
 بیری - اُمّ ملکہ - بخار - اُمّ النجوم
 مکشاں - اُمّ الولید مرغی - اُمّ ہبلاۃ -
 مینڈکی -
 لا اُمّ لک - کمر زم ہے اور کبھی مدح و
 استحسان کے لئے بھی آتا ہے -
 الامار - آگے و اُمّامک - یہ ڈرانے کے
 لئے آتا ہے اور اِحذار (یعنی ڈر)
 کے معنی دیتا ہے -
 الامار - (مذکورہ دونوں کے لئے) -
 پیش امام، وہ جس کی اقتدار کی جائے -
 پیشوا، مہار کا وہ دھاکا یا دوری جس سے
 وہ عمارت کی سیدھ قائم کرتا ہے - نمونہ،
 کھلا راستہ، جہ - اُمّیہ و اُمّیۃ
 الامامۃ - امامت - پیشوائی ریاست عامہ
 الامۃ - جماعت، آدمیوں کا گروہ - وقت
 طریقہ - قدو قامت -
 الامی - ان پڑھ بے پڑھا لکھا -
 والامیۃ والامومۃ - ماں ہونا -
 الامیم والماؤہ - سرپرست لکھا ہوا
 الامیۃ - لفظ "ام" کی تصغیر - تھوڑا
 جہ - اُمّائیم -
 الامیۃ - پتھر جس سے سر کپا جائے

امّا - حرف تشبیہ ہے اور اُس کے بعد اکثر قسم
 کھائی جاتی ہے، جیسے: اُمّا واللہ -
 حرف عرض جیسے: "امّا تنزل بنا"
 امّا - حرف شرط و تاکید یعنی جیسے: "امّا اللّٰہ
 آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّمَا الْحَقُّ" لیکن جو
 لوگ ایمان لائے پس وہ جانتے ہیں کہ وہ
 سچ ہے - حرف تفصیل جیسے: "امّا زیّد"
 فَرَجَ" لیکن زید نے توفادہ اٹھایا -
 امّا - یہ کی معنی دیتا ہے -
 ۱۔ حرف تفصیل ہوتا ہے جیسے: اناھدینہ
 السبیل امّا شا کرا و امّا کفورا - ہم نے
 انسان کو راستہ دکھلایا اس کے بعد وہ شکر
 گزار بندہ بنے یا ناشکر بن کر جئے -
 ۲۔ شک و ابہام کے موقع پر بھی آتا ہے
 جیسے: "جاء امّا زیّد و امّا عمرو" یا تو
 زید آیا ہے یا عمر، گویا یہ معلوم نہیں کہ ان دونوں
 میں سے کون آیا -
 ۳۔ اباحت و تنجیہ کے معنی بھی دیتا ہے جیسے
 "تعلّمہ امّا الفقہ و امّا اللغۃ" فقہ
 سیکھ یا لغت -
 امّہ رض، اُمّت و اُمّتہ - قیاس کرنا -
 اندازہ لگانا - قصد کرنا -
 الامّت - کمزوری، اونچا مقام، شک، خالی
 ہونا، جہ: امّات و اُموت
 امّج رس، امّج - گرم ہونا، پیاسا ہونا
 صیف امّج - بہت گرم، موسم گرما
 امّج رض، امّحانا - الجرح - دور کرنا
 امّد رس، امّدا - علیہ غصہ ہونا ناراض
 ہونا -
 امّد - مدت بیان کرنا - السقاء: مشک میں
 ایک قطرہ نہ چھوڑنا -
 الامد - غایت، چیز کی انتہاء، غصہ،
 جہ: اماد - کہا جاتا ہے "طال علیہم لامد"
 ان پر مدت طویل ہو گئی -
 الامد والامدۃ - بھری ہوئی کشتی -

أَمْرًا (ن) أَمْرًا وَآمِرًا وَآمَارًا عَمَّ
دینا۔ صفت: آمِرٌ اور صفت مفعول مامور
کہا جاتا ہے آمِرٌ الشیء بالشیء
وَأَمْرًا أَنْ يَفْعَلَ وَأَنْ يَفْعَلَ بِبَنِي
اس نے اس کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے
کا حکم دیا۔

أَمْرًا (س) أَمْرًا وَآمِرًا (ن) آمِرًا
وَأَمْرًا عَمَّ۔ امیر ہونا، سردار ہونا، حاکم ہونا
— علیہ: والی ہونا۔

أَمْرًا (س) أَمْرًا وَآمِرًا۔ الشیء بہت
ہونا، کثرت سے ہونا۔ الرجل بکثیر موشی
کا مالک ہونا۔ صفت: امیر۔

أَمْرًا۔ کسی کو امیر و حاکم بنانا۔
آمِرًا مَوْأَمِرًا۔ فی امر: کسی امر میں مشورہ
کرنا۔

آمِرًا ایہاراً حکم دینا۔ آمِرٌ:
اللہ تعالیٰ نے اس کے مال یا اس کی نسل کو
بڑھایا۔

تَأَمَّرُوا ائْتَمَدُوا وَاسْتَأْمَرُوا۔ کسی
سے مشورہ کرنا۔

تَأَمَّرُوا عَلَیْهِ تَسَلُّطًا۔ زبردستی کرنا۔
اِئْتَمَرُوا ائْتَمَرُوا۔ فرمانبرداری کرنا، حکم
بجالانا۔

اِئْتَمَرُوا وَاتَّامَرُوا۔ آپس میں مشورہ کرنا
اِئْتَمَرُوا اِئْتَمَرُوا۔ کسی کے قتل کی سازش
کرنا۔

الْأَمْرُ۔ جہ آؤ امر۔ حکم، فرمان، جہ امور
کام۔ واقعہ۔ چہرہ جیسے ”الامر ما کان
کذا“ کسی چیز کے سبب ایسا ہوا۔

أَوَّلُوا الْأَمْرَ۔ رؤسا، علماء، حکام

الْأَمْرَ۔ امر کا اسم مرہ

الْأَمْرَ۔ امر کا اسم نزع حکومت، ولایت

الْأَمْرَ بَيَانًا مِثْلَ تَجَرُّدِ الْهَيْئَةِ سَانِشَانِ

میلہ: جہ: آمِرٌ

الْأَمَارَةُ۔ علامت، جہ: آمَارَات

الْأَمْرُ بِجِبَابِ غُلَافٍ مَقْلٍ وَغُلَافٍ شَرِيعِ اَمْرٍ
الْأَمْرُ وَالْأَمْرُ۔ کمزور رائے رکھنے والا
کہا جاتا ہے ”مالہ آمِرٌ وَلَا آمِرٌ“
یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔

الْأَمَارُ۔ بہت حکم دینے والا، اشارت پر
اُکسانے والا، مؤنث: آمَارَةٌ

الْأَمْرُ۔ بزن، اول، بادشاہ کا وزیر۔
الْأَمْرُ۔ راہب کا صومعہ، شہر کی گیار
الْأَمْرُ۔ والت مؤنث والت مؤنث۔

الْأَمْرُ۔ انسان۔
الْأَمْرُ۔ حکم دینے والا، سردار قوم، اس
شخص کو بھی امیر کے لفظ سے یاد کرتے

ہیں جو شریف الاصل ہو، اگرچہ صاحب
حکومت نہ ہو۔ پڑوسی، وہ شخص جس سے
مشورہ طلب کیا جائے۔

امیر المؤمنین۔ خلیفہ مسلمانوں کا بادشاہ
امیر البحر۔ بحری بیڑے کا کپتان یا کسی
فرج کے ایک دستہ کا امیر۔ جہ: آمِرَاء

الْمَالُ الْأَمْرِيُّ۔ شاہی ٹیکس، خراجی
زمینوں سے حاصل کردہ مال۔
الْمُؤْتَمَرُ۔ کانفرنس۔

الْمُؤْتَمَرُ۔ خود رائے۔
الْمُؤْتَمَرُ۔ مشورہ، کہا جاتا ہے ”فُلَانٌ
بَعِيدٌ مِنَ الْمُؤْتَمَرِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُؤْتَمَرِ“

وہ مشورہ سے بےید اور غفلت سے قریب ہے۔
آمِسْ۔ مینی علی انکسر۔ کل گزشتہ۔
الْأَمْسُ (اعرابی حالت میں) گزشتہ ایام میں سے

کوئی دن۔ جہ: آمِسْ وَاُمُسْ و
آمِسْ۔ نسبت کے لئے اُفْسِتِ غُلَافِ
قیاس۔

الْأَمْسُ وَالْأَمْسُ۔ وہ گزشتہ جسے
باریک کر کے کچا کھاتے ہیں اور کبھی آگ
دکھلا لیتے ہیں۔

الْمُضْ (س) آمَضًا۔ الرجل: کسی کام کا پیچھے
ارادہ کرنا اور کسی کی ناراضگی کو خاطر میں نہ لانا

الْأَمْعَ وَالْأَمْعَةَ۔ ہر ایک کی رائے کی پیروی
اتباع کرنے والا۔ بن بلائے دعوت میں چلا
جانے والا۔ جہ: اَمْعُون۔ اَمْعَ کی
اصل، اتنی ممکن ہے اور اَمْعَ میں تار
تائید کی نہیں، بلکہ مبالغہ کی ہے۔
تَأَمَّعَ وَاسْتَمَّعَ۔ ہر ایک کی رائے کا
تابع بننا۔

أَمَّعَ۔ العین: ناک کی طرف کا آنکھ کا گوشہ جہ:
أَمَّعَ۔

أَمَّلَهُ (ن) أَمَّلًا وَأَمَّلَهُ تَأَمُّلاً۔
امید کرنا۔

تَأَمَّلَ۔ الامرُ دنیہ: کسی کام میں دیر تک سوچ
بجھا کرنا۔
الْأَمَّلُ وَالْأَمَّلُ۔ امید، جہ: اَمَّال

الْأَمَّلَةُ۔ امید۔
الْأَمَّلَةُ۔ امدادی لوگ جہ: آمِلٌ۔
الْمَأْمَلُ۔ امید جس کی امید رکھی جائے

الْمُؤَمَّلُ۔ گھوڑوں میں آٹھویں نمبر کا گھوڑا
أَمَّنَ (ن) أَمَانَةً۔ امین ہونا، امانت دہنا
صفت۔ امین جہ: اَمَّنَاء۔

أَمَّنَهُ (ن) أَمَّنًا۔ کسی پر اعتماد و محبوسہ کرنا
کسی پر اعتبار کرنا۔ صفت: آمِنٌ۔
آمِنٌ (س) آمِنًا وَأَمِنًا وَأَمِنَةً۔

مطمئن ہونا۔ صفت آمِنٌ وَاْمِنٌ وَاْمِنٌ
— اَلْأَمْنُ دُنْیَا شَیْءٍ مَغْفُوظٍ رَهْبًا وَرَهْبًا
آمَنَ۔ آمین کہنا۔ کسی کو امن د
اطمینان میں کرنا۔

آمَنَ وَاسْتَمَنَ۔ فلاناً علی کذا: کسی کو
کسی شے پر امین بنانا۔

آمَنَهُ اِئْتَمَانًا۔ امن دینا۔ بلہ: کسی کی
تصدیق کرنا، اس پر یقین لانا۔ لہ:
مناجدار اور مطیع ہونا۔

اِسْتَأْمَنَهُ۔ کسی سے امن چاہنا، کسی سے
امن طلب کرنا، کسی کو امین سمجھنا۔
علی کذا: امین بنانا۔





الْأَمْنَةُ - اطمینان، دلی سکون، امانت،
وہ شخص جو ہر ایک پر بھروسہ کر لے۔
الْأَمْنَةُ - وہ شخص جس پر ہر ایک کو اعتبار ہے
اعتباری آدمی، معتدل علیہ۔
الْأَمْنَةُ - آرزو، چہ: آمائی
الْأَمْنَةُ - امانت، ودیعت - چہ:
آمانات - خدا تعالیٰ کی فرض کی ہوئی ذمہ
داری۔
الْإِيمَان - تصدیق کرنا، مان لینا، خدا سے تعالیٰ
کی وحی پر دل و جان سے ایمان لانا۔
الْأَمُون - وہ سواری جس کے لغزش قدم کا
خوف و خطر نہ ہو۔
الْأَمِين - امانت دار، کسی کے پاس امانت
رکھنے والا، کسی کی امانت رکھنے والا۔
جہ: اُمَامَةُ -
أَمِينٌ وَأَمِينٌ - اسم فعل یعنی قبول کرنا ایسا
ہی ہو۔
الْمُؤْمِنُ - ماننے والا - تصدیق کرنے والا
خدا تعالیٰ کے احکام پر یقین لانے والا۔
الْمَأْمُون - معتدل علیہ شخص - معتبر آدمی۔
الْمَأْمَن - امن کی جگہ۔
أَمَلَهُ (س) أَمَّهَا وَأَمَّهَا - الشئ بھول
جانا، فراموش کرنا۔
أَمَهُ (ن) أَمَّهَا - الیہ فی الامر: کسی سے
کسی امر میں عہد و پیمان کرنا۔
تَأَمَّلَهُ - المرأة: کسی عورت کو ماں بنانا۔
الْأُمِّيَّة - بکری کی چیمپ یا چھنسیاں
أَمَادَن، وَأَمْحَى (س) وَأَمْحَى (ض) أُمُودًا
أَمَّتِ الْبَجَارِيَّة - لونڈی بننا۔
أَمَّتِ (ن) أُمُودًا - السُّودَ رِیَاضًا مِیَاوِلَ
کرنا
أَمْحَى - البجاریَّة - لونڈی بنانا۔
تَأَمْحَى وَأَسْتَمْحَى - البجاریَّة: کسی کو باندی و
لونڈی بنانا۔
الْأَمَّة - باندی، لونڈی، چہ: إِمَاءٌ و

أَمَوَاتٌ وَأَمْرٌ - نسبت کے لئے "أُمُو"ی
تفسیر اُمِّيَّة۔
أُمِّيَّة - قریش کا ایک قبیلہ - نسبت اُمُو
اور اکثر اُمُو بھی کہتے ہیں۔
أَنْ - حرف مصدری ہے، فعل مضارع کو نصب
دیتا ہے، جیسے "ان تصوموا خیر لکم"
یعنی تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر
ہے کبھی أَنْ سے مخفف ہو کر جیسے "عَلِمَ
أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَوْضِعٌ" اللہ نے
جان لیا کہ تم میں سے بعض بیمار ہوں گے۔
کبھی تفسیر کے لئے آتا ہے یعنی اُسے
کے جیسے "فاوحینا الیہ ان اصنع
الْفُلْکَ" پس ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف
کہ کشتی بنا، کبھی زائد ہوتا ہے محض تاکید
کے لئے جیسے لَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ
جب آیا خوش خبری دینے والا۔
إِنْ - حرف شرط ہے۔ و دُفْعِلَ کو جزم دیتا
ہے جیسے "إِنْ تَصْرَبْ تَصْرَبْ" اگر
تو مارے گا تو مارا جائے گا۔
حرف نفی ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا
ہے اور بعض کے نزدیک لیس کی طرح
عمل کرتا ہے جیسے "ان احد خیر امن
احد الا بالعا فیتہ" یعنی عافیت کے بغیر
کوئی کسی سے بہتر نہیں، کبھی جملہ فعلیہ پر
آتا ہے جیسے "ان ادری اقرب ام
بعیدا ما تعدون" میں نہیں جانتا کہ
جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب
ہے یا بعید۔
کبھی اِنْ مثقلہ سے مخفف ہوتا ہے اور
زائد ہوتا ہے جیسے "مَا اِنْ زَيْدًا اَقْلَمَ"
اِنْ - حرف تاکید ہے۔ اسم کو نصب دیتا ہے
اور خبر کو رفع جیسے "اِنْ زَيْدًا اَقْلَمَ"
کبھی حرف جواب ہوتا ہے جیسے کوئی کہے
"لعن اللہ ناقۃ حملتہنی الیک" یعنی
اللہ اس اونٹنی پر لعنت کرے جو مجھ کو تیرے

پاس لے آئی۔ اور اس کے جواب میں کہا جائے
اِنْ ورا کہہ سہا۔ اِنْ اس کے سوار پر بھی
اَنْ - حرف تاکید ہے۔ یہ اسم کو نصب اور خبر کو
رفع دیتا ہے اور اس کے مابعد کا جملہ مفرد
کے معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی مصدری معنی دیتا
ہے جیسے "بلغنی اَنْ زَيْدًا اَقْلَمَ" مجھ
کو زید کے قیام کی خبر پہنچی۔
اَنْ (ض) اَيْنَا وَاَيْنَا وَاِنَا وَاِنَا وَاِنَا
کراہنا، ورد اور دھکی دھبے آہ نکالنا۔
اَنْتَ وَاَنْتَ - ماننا۔
الْاَنَان وَالْاَنَان وَالْاَنَان - بہت
کراہنے والا
الْاَنَان وَالْاَنَان - کراہنا۔ حاصل مصدر
اَنَا - ضمیر مرفوع برائے مثقل یعنی "میں"۔
الْاَنَان - "اَنَا" کہنا۔
الْاَنَانِيَّة - لاف، خودی، گھنڈہ غرور۔
اَنْتَ - کسی کو اُنٹنا، جھڑکنا، عداوت کرنا
الْاَنْتِيْق - عرق کشید کرنے کا آلہ جہ اَنْتِيْق
الْاَنْتَب - بینگن۔
الْمُؤْتِنِب - جو شخص جس کو کھانے کی خواہش نہ ہو
اَنْتَ وَاَنْتَ - تو واحد مذکر حاضر، اور
واحد مؤنث حاضر کی ضمیر مرفوع مفصل
جہ: اَنْتُمْ وَاَنْتُمْ۔
اَنْتَ (ض) اَيْنَتَا - المرفوع، مہار کا کراہنا
آہ آہ کرنا۔ فَلَانَا: جھڑکنا۔ الشئ:۔
امرازہ کرنا۔
اَنْتَ (ل) اَنْتَا - الحدید: لوہے کا کچا وزن
ہونا۔ مؤنث ہونا: صفت: اَنْتِيْق
مَکَانَ اَيْنَتَ - گھاس جلد اگانے والی زمین
سَيِّفُ اَيْنَتَ - کد تلوار۔
اَنْتَمَا - مؤنث بنانا، مؤنث شکر کرنا جنت
بنانا۔ اَنْتَ لہ: نرم ہونا، نرمی برتنا۔
اَنْتَتُ اَيْنَتَا - المرأة: عودت کا لڑکی
جننا، صفت: مؤنث
تَاَنْتَتَ - مادہ ہونا، مؤنث ہونا۔ لہ:

نرم ہونا۔ ڈھبلا ہونا۔
الْأُنْثَى - مادہ - ج: رِائَاتٌ وَأَنْثَى -
جج: اُنْثٌ -

الْمُؤَنَّثُ - مادہ، بیحڑا
الْمُسْنَنَاتُ - وہ عورت جو لڑکیوں جیسا کہتی
ہو۔ مرد کے لئے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے
اس لئے کہ مفعول کا وزن دونوں کے لئے
یکساں ہے مِثْنَاتٌ کا مقابلِ مذکر رہے
یعنی وہ عورت جو لڑکے جیسا کرتی ہو۔

الْإِنَاثُ - چھوٹے چھوٹے تارے۔
الْإِنْجِسُ - جہاز کا سنگر۔

الْإِنْجِيلُ - آسمانی کتاب جو حضرت عیسیٰ علی
نبیہا وعلیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یہ ایک
یونانی کلمہ ہے جس کے معنی بشارت کے ہیں
ج: اِنَا جَبِيلٌ -

أَنْحَرَضَ (ض) أَنْحَا وَأَنْجَحَا وَأَنْحَاكَ
الْأَنْحَرُ وَالْأَنْحَرُ وَالْأَنْحَرُ ح سوال کرنے
پر غل کی وجہ سے کانچنے والا۔

النَّسْرُ (ض) وَالنَّسْرُ (ض) النَّسْرُ وَالنَّسْرُ
وَالنَّسْرُ (ض) النَّسْرُ - مانوس ہونا۔
— بر والیہ کسی سے محبت کرنا، کسی سے

دل لگنا۔

النَّسْمُ - مانوس کرنا۔
النَّسْمُ - الشیء کسی چیز کو دیکھنا اور اس کو جاننا
النَّسْمُ يَوْمَ النَّسْمِ مَوْدُ النَّسْمِ لَطْفٌ
مہربانی کرنا۔ محبت کرنا۔ تسلی دینا۔

النَّسْمُ يَوْمَ النَّسْمِ اِنْبَسَا - مانوس کرنا۔

النَّسْمُ - الصوت: آواز سننا۔ الشیء:

کسی چیز کو دیکھنا اور اسی سے ہے "النَّسْمُ"

من جانب الطوس نارا، یعنی حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے طور کی جانب آگ کو

دیکھا۔

النَّسْمُ - انسان ہونا، مانوس ہونا۔ السبع

ورزدہ کا دور سے اپنے شکار کی آمہٹ کو

معلوم کر لینا — بہ: کسی سے مانوس ہونا

اِسْتَنَّا نَسْ - وحشت دور ہونا — بر والیہ:
کسی سے مانوس ہونا — لہ: کان لگانا

دیکھنا۔

النَّسْمُ - وہ شخص جس سے تم کو انس ہو،

بڑا اگر وہ ج: اُنَّاسٌ -

النَّسْمُ - آدمی - واحد النسي والنسي

ج: اُنَّاسٌ وَاِنَّا سِي -

النَّسْمُ وَاِبْنُ النَّسْمِ - تمہارا دوست

اور حلیف۔

النَّسْمُ وَالنَّسْمَةُ - اُنْسِيَتُ -

النَّسْمَةُ - پاکیزہ طبیعت والی لڑکی۔

ج: اَوَّاسٌ -

النَّسْمَانُ - انسان، آدمی خواہ مذکر ہو یا

مؤنث اور اِنْسَانَةٌ بھی مانا گیا ہے

غیر مزدوزمین۔

النَّسْمَانُ الْعَيْنُ - آنکھ کی تلی ج: اَنَّا سِي

وَاِنَّا سِيَّةٌ وَاِنَّا سِي -

النَّسْمَانِيَّةُ - انسان کی خصوصیات۔

اس کا استعمال اکثر اخلاق ستودہ کے لئے

آتا ہے، مثلاً جو آزادی، خوش اخلاقی

ابھی تربیت وغیرہ۔

النَّسْمَانُ - بہت اُنْسُ کرنے والا

النَّسْمَانُ - اُنْسُ کرنے والا، وہ شخص جس سے

اُنْسُ ہو، کہا جاتا ہے "ما بالدار من

انيس، یعنی گھر میں کوئی نہیں ہے۔

النَّسْمَانُ - ایک آبائی پرندہ بھی ہے جس کی آواز

گائے کی آواز سے مشابہ ہوتی ہے۔

النَّسْمَانَةُ وَالْمَأْنُوسَةُ - آگ۔

النَّسْمَانُ - انس دینے والا پنبشہ کے دن

کانام۔

النَّسْمَانُ - شمع۔

النَّسْمَانُ - مہتیا۔

النَّسْمَانُ - رومی سونف

النَّسْمَانُ (ض) اِنْبَسَا - اللحم: گوشت کا خرا

ہونا۔ بگڑنا۔

النَّسْمَانُ (ض) اِنْبَسَا - اللحم: گوشت کا خرا
کا حرکت کرنا۔

النَّسْمَانُ اِنْبَسَا - اللحم: گوشت کا نیم بریا کرنا

النَّسْمَانُ (ض) اِنْبَسَا - اللحم: گوشت کا نیم بریا کرنا

نا پسند کرنا۔ صفت: اَنُوفٌ - اسم

الانف - البعير: اونٹ کی ناک میں پانی

پیدا ہونا۔ صفت: اَنُوفٌ -

النَّسْمَانُ (ض) اِنْبَسَا - اللحم: گوشت کا نیم بریا کرنا

النَّسْمَانُ (ض) اِنْبَسَا - اللحم: گوشت کا نیم بریا کرنا

نئے سرے سے شروع کرنا۔ اور اسی سے

ہے "النَّسْمَانُ (ض) اِنْبَسَا - اللحم: گوشت کا نیم بریا کرنا"

اییل کی۔

النَّسْمَانُ - ناک۔ اَنُوفٌ - الجمل: پہاڑ کا ٹکڑا ہوا

حصہ۔ اَنُوفٌ - ہر چیز کی ابتداء

کہا جاتا ہے۔ "مات حقت انفہ"

یعنی وہ اپنی طبعی موت مرا۔ رخم انفہ۔

وہ ذلیل و رسوا ہوا۔

حی اَنُوفٌ - وہ غالب و زبردست ہوا

ج: اَنَاتٌ وَاَنُوفٌ وَاَنُوفٌ -

اَنُوفٌ - ابھی کہا جاتا ہے۔ "ذکر ثہ"

اَنُوفٌ - میں نے اس کا ابھی ذکر کیا۔ یہ

نار ظرفیت منصوب ہوتا ہے۔

اَنُوفٌ - الشباب: عفتان شباب

کہا جاتا ہے "مَصْنُتٌ اَنُوفٌ الشباب"

یعنی عالم جوانی ختم ہوا۔ جوش جوانی جاتا رہا

النَّسْمَانُ - وہ سبزہ زار جس کو کسی نے نہ چلے ہو

کاس اَنُوفٌ - وہ پیالہ جس سے کسی نے

نہ پیا ہو۔ اچھوتا پیالہ۔

النَّسْمَانُ - نرم لہ۔ تمام زمینوں سے پہلے

پیداوار اگانے والا پہاڑ۔

رَجُلٌ اَنُوفٌ - بڑی ناک والا مرد۔

النَّسْمَانُ - نیا۔

النَّسْمَانُ (ض) اِنْبَسَا - اللحم: گوشت کا خرا

کسی چیز کو پسند کرنا۔ بہ: کسی چیز کو پسند

کر کے دوسری اشیاء کے مقابل میں اس کو اختیار



کرنا۔ الشیء کسی چیز کا خوبصورت

عمدہ اور پسندیدہ ہونا۔ صفت :

أَنْتِ وَأَنْتِ وَمُوتِ کہاجاتا

ہے ”رَوْضَةُ أَنْتِ وَأَنْتِ“ بلوغ

خوبصورت و خوش منظر ہے۔

أَنْتِ کسی کو تعجب میں ڈالنا۔

أَنْتِ وَأَنْتِ وَأَنْتِ تعجب میں

ڈالنا۔ نَبِيقًا مصدر غلاف تیاں ہے

تَأْتِ کسی تھری چیز کا پیچھا کرنا۔ فی

الکلام اول العمل: احتیاط و حکمت سے

انجام دینا۔ المكان: پسند آنے

کے سبب کسی جگہ سے جہاز ہونا۔

الْأَنَاقَةُ وَالْأَنَاقَةُ پسندیدہ حسن

الْأَنَاقَةُ عقاب کہاجاتا ہے ”هُوَ

أَعَزُّ مَنْ بِيضِ الْأَنَاقَةِ“ وہ عقاب

کے انڈے سے زیادہ کم یاب ہے یعنی

بالکل نایاب ہے۔

أَنْتِ (ن) أَنْتِ الشیء بڑا اور مٹا ہونا

الْأَنَاقَةُ سیسہ۔ ایک ٹکڑے کو اُنکٹہ

کہتے ہیں۔

الْأَنَاقَةُ مارا ہی۔

الْأَنَاقَةُ وَالْأَنَاقَةُ مخلوق۔ انسانی نسل

أَنْتِ (ن) أَنْتِ وَأَنْتِ وَأَنْتِ

تَأْتِ قَرِيبَ هَذَا النَّبَاتِ

نبات کا پکنا۔

أَنْتِ يَا أَنْتِ (ن) أَنْتِ وَأَنْتِ پیچھے

رہنا، دیر کرنا۔ صفت۔ أَنْتِ۔

أَنْتِ أَنْتِ۔ فلاناً دیر کرنا، پیچھے ڈالنا

تَأْتِ وَأَنْتِ أَنْتِ۔ فی الامر وہ: غزو و

فکر کرنا۔ انتظار کرنا، انکساری سے

سلوک کرنا۔ الرجل: کسی کو مدت دینا

الْأَنَاقَةُ۔ وقار، بردباری، انتظار مہلت

الْأَنَاقَةُ وَالْأَنَاقَةُ۔ وقت کا اجماع

الْأَنَاقَةُ۔ بردباری، نرمی، پورا دن۔ یا اس

کا ایک حصہ۔ ج: آتاء وَأَنْتِ،

کہاجاتا ہے ”آتاء اللیل واللیل

النهار“ یعنی رات دن و شب و روز

رجل” آتِ۔ بردبار اور سنجیدہ آدمی

الْأَنَاقَةُ۔ برتن ج: آتِیَّةٌ وَجج: اَوَان

أَنْتِ۔ ظرف مکان ہے دو فعلوں کو حزم

دیتا ہے۔ اور آتِی (جہاں) کے معنی

ظاہر کرتا ہے جیسے ”أَنْتِ تَجْلِسُ

أَجْلِسُ“ جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا

کبھی مِنْ آتِی (کہاں سے) کے معنی

کو مفید ہوتا ہے جیسے ”أَنْتِ لَكَ هَذَا

یعنی تم کو یہ کہاں سے ملا۔ کبھی (مستی)

کب۔ کے معنی میں ظرف زمان کے لئے

آتا ہے، جیسے ”أَنْتِ جِئْتُ“ تم

کب آئے۔ کبھی استفہام کے لئے

معنی کیف رکس طرح، جیسے ”أَنْتِ جِئْتُ

هَذَا اللَّهُ بَعَثَ مُوتِيًا“ اللہ تعالیٰ

ان بستیوں کو کیوں کر زندہ کرے گا

أَلَا وَأَلَا وَأَلَا وَأَلَا وَأَلَا وَأَلَا

افسوس۔ لئے (اظہار درد و کاکہ ہے)

أَلَا (ن) أَهًا وَأَهَةً وَأَهَةً وَأَهَةً

وَأَهَةً۔ آہ بھڑنا۔ آہ آہ کرنا۔

أَهَبَ وَأَهَبَ۔ لایم: کسی کام کے

لئے تیار و آمادہ ہونا۔

الْأَهْبَةُ۔ سامان۔ کہاجاتا ہے ”أَخَذَ

لِلشَّيْءِ أَهْبَتَهُ“ اس نے سامان سرفرا

الْأَهْبَةُ: گھر پر سامان۔ اچھی حالت ہیئت

ج: أَهَبَ وَأَهَبَات

الْأَهَابُ۔ کچی کھال۔ خام چمڑا۔

ج: أَهَبَ وَأَهَبَ وَأَهَبَ۔

أَهَلْ (ن) مَنْ، أَهْلًا وَأَهْلًا:

الرجل: شادی کرنا۔ امرأة:

کسی عورت کا نکاح کرنا۔ صفت

مسنولی (ماہولہ)

أَهْلَ (ن) أَهْلًا۔ بہ: کسی سے دل لگانا

أَهْلَ۔ المكان أو البلد: جگہ یا شہر کا آباد ہونا

صفت: أَهْلٌ وَمَا هُوَ۔

أَهْلُهُ أَيُّهَا لَا۔ شادی کر دینا۔ وَأَهْلًا:

کسی کو کسی کام کے لائق بنانا، یا بچھنا۔

أَهْلٌ۔ بہ: اہل و سہل: کتنا۔ خوش آمدید کہنا۔

تَأَهَّلَ وَاتَّهَّلَ۔ شادی کرنا۔ گھر بار والا

ہونا۔

تَأَهَّلَ۔ لایم: کسی کام کے لائق ہونا۔

اِسْتَأْهَلَ۔ الشیء: کسی چیز کا اہل ہونا۔

مستی ہونا۔ حق دار ہونا، لائق ہونا۔

الرجل: کسی کو کسی کام کے لائق بچھنا۔

أَهْلًا وَسَهْلًا: خوش آمدی۔ اصل میں

یہ کلام یوں ہے ”صَادَقْتُ أَهْلًا لَا

عَرَبًا وَوَطِئْتُ سَهْلًا لَا وَعَرًا“

یعنی تو نے اپنے ہی گھر والوں کو پایا نہ

اجنبیوں کو اور نرم زمین میں آیا نہ سخت

زمین میں۔

الْأَهْلُ۔ کنبہ۔ رشتہ دار۔ ج: أَهْلُونَ

دَآهَلٌ وَآهَالٌ وَأَهْلَاتٌ وَ

أَهْلَاتٌ۔

أَهْلُ الرَّجُلِ۔ بیوی

أَهْلُ الْأُمِّ۔ حکام۔

أَهْلُ الْمَذْهَبِ۔ ہم مذہب

أَهْلُ التَّوْبَةِ۔ خیموں میں رہنے والے بدو

أَهْلُ الْمَدَرِ وَالْحَضَرِ۔ مکانوں میں رہنے

والے شہری۔

الْأَهْلِيَّةُ۔ قابلیت، لیاقت

الْأَهْلُ وَالْأَهْلِيُّ۔ پالتو جانور

الْأَهْلُ۔ بیوی بچوں والا۔

الْأَهَالَةُ۔ بچل ہوئی چربی۔ ہر وہ دھن جس

کو بطور سالن کے استعمال کیا جائے۔

الْمَاهُولُ۔ آباد مکان۔

أَوْ۔ حرف عطف ہے، اور ذیل کے معنوں میں

آتا ہے:

ا۔ شک جیسے ”بِثْنَا يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ“





آس یئوس اوسا و ابا سا - دینا،
معاوضہ دینا۔

استاسک - بخشش پانا، مدد کا خواست
گاہر ہونا، صحبت کا خراباں ہونا۔

الاس - عطیہ، بخشش - بھیرٹیا۔
الاس - درخت مور جس کے پتے بہت

سبز اور تازہ ہوتے ہیں۔
واحد: آسہ۔

الاس - چوٹھ کی لقیہ راہ، شہد، قبر
اولیس - بھیرٹیا۔

حب الاس - مرود کے دانے۔
الاس الیوی و شرابة الراعی -

جنگلی مرود۔
آفسا (ن) اوقا - نقصان و ضرر پہنچانا

فاسد کرنا۔
آفت اوقا و آفت و اوقا - البلاد

شہروں کا آفت زدہ ہونا۔
الافستہ - آفت - مصیبت، فساد لانے

والی چیز۔
آق (ن) اوقا - علیہ، اوپر سے جھانکنا۔

جھک جانا، کسی پر مصیبت و سختی
لانا۔

اوقہ - کسی پر مصیبت و سختی ڈالنا۔
تاوق - رکنا۔

الاق - بوجھ، سختی، کھانا پانا ہے
"القی علی اوقہ" اس نے اپنا بوجھ

مجھ پر ڈال دیا۔
وبہ اوق - وہ منحوس ہے

الاق - جماعت۔ اسی سے ہے "جاء
القوم باوقیتم" قوم پوری کی پوری

آلی۔
الاق - گروہ جس میں پانی جمع ہو جاوے

ج، اوقات و اوق۔
الاق - نصف رات کا چٹا مہر چڑھتا

چھٹا تک ہوتا ہے۔ ج، اوقی و اوقی

رجوع۔

والاؤب - قصد، عادت، راستہ، جہت
کہا جاتا "جاؤ امن کل اؤب"

وہ لوگ ہر سمت و جہت سے آئے۔
"وکت علی صوب فلاں و اوب"

میں فلاں کی روش و طریقہ پر تھا۔
الاقاب - توبہ کرنے والا ج: اؤبوں

الماب - مرجع، واپس لوٹنے کی جگہ۔
ج: ماؤب - کہا جاتا ہے "بینہما

ثلاثہ ماؤب" یعنی ان دونوں
کے درمیان تین منزل کا فاصلہ ہے۔

الاثبتہ - وہ پانی جس کو دیر کے وقت
پیش۔

الادج - بلندی، فن موسیقی میں راگ کے
ایک ٹکڑا نام۔

الاسح - اٹنے کی سفیدی۔
اد - (ن) اودا و اودو - الامر:

گراں بار کرنا، بھاری لگنا، تھکا دینا۔
الحل: بڑھل کرنا۔ صفت: آشد

اور صفت مفعول: مؤد - اودا
الغی: سایہ کا ڈھلنا اور لوٹنا - العشی:

مائل ہونا - اودا و اود - العود:
کھڑکی کا موڑنا اور ٹیڑھا کرنا۔

اودس، اودا و اودا و اودا - ٹیڑھا ہونا، موڑنا
صفت: اود مؤنث: اودا

و تاودکا - الامر: کسی کو کسی کام کا شاق
گزرنا، گراں گزرنا۔

اناد انیاد - بھگنا، موڑنا، ٹیڑھا ہونا
الادج - جی، جھکاؤ، تکلیف، تکان۔

الادکا - بوجھ۔
الماد - مصیبتیں۔

الاد - گرمی، پیاس، دھواں ج: اودر
الادکا - چوٹھا، آگ جلانے کی جگہ۔

الادکا - بط - ج: اودر
المادکا - وہ جگہ جہاں بلخیں کثرت ہیں

ہم ایک یا دو دن رہے۔

۲۔ ابہام جیسے "نخن او انتم علی
الحق" یا تو ہم حق پر ہیں یا تم۔

۳۔ اباحت، جیسے "جالیس الحسن
او ابن سیدین" حسن کے پاس بیٹھو

یا ابن سیرین کے پاس۔
۴۔ تحنیر، جیسے "سور کبا اوما شیا"

سوار ہو کر چلو یا پیدل۔
۵۔ تقسیم، جیسے "الکلمۃ اسم او

فعل او حرف" کلمہ اسم ہے یا فعل
ہے یا حرف ہے۔

۶۔ کبھی الی، آن، کے معنی دیتا ہے جیسے
"لا لزمناک او تو فیہی حق" میں تم

کو نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میرا پورا
حق نہ دے دو۔

۷۔ کبھی الا کے معنی میں آتا ہے جیسے:
"لا تقتل العدا و یخضع" میں

دشمن سے لڑوں گا مگر یہ کہ وہ ملیج ہو جائے۔
آب (ن) اوبا و مابا - من السفر: سفر

سے واپس ہونا۔ صفت: آوب - ج:
آوب و آیاب و اؤاب - الماء:

رات کے وقت پانی پر اترنا۔
الشمس: سورج کا غروب ہونا۔

الی الله: توبہ کرنا، اللہ کی طرف
رجوع کرنا۔

آب (ن) اوبا - قصد کرنا۔
آب الیہ - کسی کے پاس رات کے وقت جانا

آوب (س) اوبا - ناراض ہونا، غضبناک ہونا
آوب و آیاب - عتہ، لوٹنا۔

آوب و آوب مؤاوبہ - القوم: سارے
دن چلنا اور رات کو قیام کرنا۔

تاؤب و تاؤب و ائتائب - واپس
ہونا، لوٹنا - الماء: رات میں کسی

چشمہ پر اترنا۔
الادب و الادوبہ و الاياب - واپسی



الْأَوَّلُ قِيَانُوس - بحر محیط، جو یورپ و امریکہ کے درمیان واقع ہے۔
 الْاَوَّلُ كَسِيحِينَ - اُکسین، ایک قسم کی گیس
 الْاَل - سراب، وہ بنجرات جو چلیاقتی
 و صوب میں آسمان وزمین کے مابین
 پانی کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔
 اَلُ الرُّجُل - انسان کے اہل و عیال،
 اَلُ کا لفظ صرف شرفاء کے لئے مستعمل
 ہے چنانچہ اَلُ الْاَشْكَاف نہیں کہلاتا
 اَلُ الْجَبَل - پہاڑ کے اطراف
 الْاَلَة - اوزار، ج: اَلُ وَاَلَاتُ
 حالت، سختی۔
 الْاَلَة الْحَدْبَاء - تابوت
 اَلَة الْغِيَاطَة - سینے کی مشین۔
 اَلَة الْكِتَابَة - ٹائپ رائٹر
 الْاَلَاتِي - گویا۔ ساندہ، کارخانہ،
 آواز کا منظم یا منبج۔
 الْاَوَّل - پہلا ج: اَدَامِل وَاَوَّل و
 اَوَّلُون - مؤنث، اَوَّل - ج:
 اَوَّل وَاَوَّلِيَّاتُ - لفظ۔ اَوَّل
 صفت کی حالت میں غیر منفرد ہوتا ہے
 مثلاً آپ کہیں لَقِيْتُهُ عَامًا اَوَّل -
 اور اس کے علاوہ صورتوں میں منفرد
 رہتا ہے جیسے ”مَا رَأَيْتُ لَهٗ اَوَّلًا
 وَاٰخِرًا“ اور کہلاتا ہے ”لَقِيْتُهُ
 اَوَّل ذِي يَدَيْنِ“ یعنی بوقت صبح میں
 سب سے پہلے اس سے ملا۔ ”اعمل كذا
 اَوَّل ذِي يَدَيْنِ“ یکام میں سب
 سے پہلے کروں گا۔
 اَل (ن) اَوَّلًا وَمَا لَا - اِلَیْهِ، ٹوٹنا۔
 — اِیَّاكَ وَاَوَّلًا — المرتبة:
 رعیت کا انتظام کرنا۔ سیاست رانی کرنا
 اَوَّلًا وَاِیَّالًا وَاِیَّالَةً عَلَی الْقَوْمِ
 کسی قوم پر حاکم ہونا۔
 اَوَّلَهٗ - اِلَیْهِ، کسی کی طرف واپس کرنا۔

تَاَوَّلَ - الکلام: کلام کی تفسیر کرنا۔
 تَاَوَّلَ فِیْهِ الْخَیْرَ - کسی چیز میں بھلائی
 معلوم کرنا۔
 اُنْتَال - المال: مال کا انتظام کرنا
 اَلْمَال - واپس ہونے کی جگہ، نتیجہ۔
 مَال الْکَلَام - کلام کا مفاد۔
 الْاِیَّالَة - حکومت، سیاست،
 صوبہ۔ ج: اِیَّالَات -
 اَوَّلَاء وَاَوَّلَی - اسم اشارہ جمع قریب
 کے لئے۔ مذکر و مؤنث دونوں کے لئے
 اَوَّلَاء کے شروع میں (ہا) تنبیہ داخل کر کے
 ”هُؤُلَاء“ کہلاتا ہے اور آخر میں
 (لہ) خطاب لاحق کر کے اَوَّلِیْٹ
 بولا جاتا ہے اور اَوَّلَاء وَاَوَّلَی
 ”الَّذِیْنَ“ کے معنی میں بھی مستعمل
 ہوتے ہیں۔
 اَوَّلُو - جمع ہے معنی ذوولین (والے)
 مفرد اس کا ذُو ہے۔ مؤنث اَوَّلَاتِ
 اس کا واحد ذات ہے۔ کہلاتا ہے
 ”جاءنی اولو العلم واولات
 الفضل“ میرے پاس علم والے
 اور فضل والیاں آئیں۔
 اَہْر (ن) اَوَّمًا - شدت کی پیاس لگنا۔
 وَاَہْر (ن) اَوَّمًا وَاِیَّامًا وَاِیَّامًا -
 انخل وعلیہا بچھتے کے نیچے دھواں
 کر کے مکھیوں کو اڑانا۔
 اَوَّم - کسی کو پیاسا کرنا۔
 الْاَوَّار - پیاس، دوران سر۔
 وَاِیَّار - دُھواں ج: اِیَّام
 اَن (ن) اَوَّنَا - علی نفسہ: اپنی جان پر
 نرمی کرنا۔
 اَوَّت وَاَوَّنَا - ارجل: سنجیدہ و پر وقار
 ہونا۔
 الْاَوْن - نرمی، آرام، سکون، باوقار
 رفتار سے چلنا۔

الْاَن وَالْاَوَّان - وقت ج: اَوَّت
 الْاَوَّن - ابھی، اس وقت۔
 الْاِیَّوَان - محل، ج: اِیَّوَانَات - و
 اَوَّوین۔
 الْاَوَّان - کھوے (اس کے لئے دامنیں)
 آہ (ن) اَذْهَأ وَاَوَّه وَاَوَّه - آہ
 نکالنا۔ دردمند ہونا۔
 الْاَوَّاه - بہت آہیں بھرنے والا۔
 الْاَهَّة - آہ، کھسو۔
 اَوَّی (ض) اَوَّیَا وَاَوَّاه - البیت:
 والی البیت: گھر میں اُترنا، گھر میں
 ٹھکانا لینا۔
 وَاَوَّی وَاَوَّی - ہ - البیت: کسی کو
 گھر میں اُتارنا۔
 اَوَّی (ض) اَوَّیَّة وَاَوَّیَّة وَمَاوِیَّة
 وَمَاوَاة - لہ: کسی پر رحم کرنا،
 نرم دل ہونا، ترس کھانا۔
 تَاَوَّوِی وَاَوَّوِی - الطیور: اکٹھا ہونا
 اِئْتَوَّوِی وَاِئْتَوَّوِی - پناہ لینا۔
 لہ: کسی پر ترس کھانا۔
 الْمَاوِی وَالْمَاوَاة - بجائے پناہ۔
 اِسْنِ اَوَّوِی - گیدڑ بعض اس کی کنیت
 ابو زہرہ بتاتے ہیں۔ ج:
 بَنَاتِ اَوَّوِی
 الْاَوَّیَّة - علامت — من الکتاب:
 قرآن کی ایک آیت، عبرت۔ ج:
 آئی وَاِیَّات -
 اَوَّیَةُ الرُّجُل - آدمی کا وجود، کہلاتا
 ہے ”خروج القوم بایتہم“
 قوم پوری جماعت لے کر نکلی۔
 اَوَّی - حرف نداء یعنی یاد جیسے ای زیلاً
 حرف تفسیر جیسے دَرَّ اَوَّیْتُ
 عَصْنَفًا اَوَّی اسداً“
 اَوَّی - ہن، قسم سے پہلے آتا ہے جیسے:
 ”اَوَّی وَاَللّٰہ“ ہن، قسم بخدا۔

(۲)
ب

ب۔ یہ حرف جر ہے اور کئی معانی کے لیے مستعمل ہوتا ہے :-

۱۔ اَلصَّاقُ، جیسے اَمْسَكَتُ بِالْفَلَامِ
میں نے غلام کو پکڑ لیا۔ ۲۔ اِسْتَعَانْتُ
جیسے كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ۔ میں نے قلم
سے لکھا۔ ۳۔ مَعَاجَزْتُ، جیسے اَذْهَبُ
بِسَلَامٍ۔ سلامتی کے ساتھ جا۔
۴۔ عَظَمْتُ۔ جیسے سَارَ بِاللَّيْلِ۔
وہ رات میں چلا۔ ۵۔ بَدَلَ، جیسے بَاعَ
الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ۔ اس نے ایمان کے
بدلے کفر لیا۔ ۶۔ تَعَدَّيْتُ، جیسے ذَهَبْتُ
بِهِ إِلَى الْبَيْتِ۔ میں اس کو گھر تک
لے گیا۔ ۷۔ قَسَمَ، جیسے بِاللهِ۔ خدا کی
قسم۔ مِثْلَ بَيْتِ، جیسے لَقِيتُ
بِزَيْدٍ إِذْ هُوَ۔ میں زید کے
سبب خطرات میں پڑ گیا۔ ۹۔ تَأَكَّدَ۔ یہ
راہد ہوتا ہے اور حسب ذیل مواقع میں
استعمال ہوتا ہے۔ کَانَ، مَنَى کی خبر
میں۔ جیسے وَمَا كَانَ مُنْكَرَ۔ وہ منکر
نہ تھا۔ لَئْسَ۔ کی خبر میں، جیسے
لَئْسَ زَيْدٌ بِقَاتِلِ۔ زید کڑا نہیں ہے
۔ مَا مُشَابِهَہ کی خبر میں، جیسے
مَا اللهُ بِعَافِيٍّ۔ اللہ غافل نہیں
ہے۔ أَفْعَلَ، مِثْلَ تَعَجَّبَ کے
فاعل پر، جیسے أَكْرَمَ بِهِ أَحْسَنُ
بِهِ۔ لَفْظُ نَفْسٍ وَعَيْنِ سے
تاکید لانے میں جیسے جَاءَ الْوَزِيرُ
بِنَفْسِهِ۔ وزیر خود آیا۔ کُفَى کے
فاعل و مفعول پر جبکہ تعدیہ بیک مفعول
ہو۔ فاعل کی مثال جیسے کُفَى بِاللَّهِ
شَهِيدًا، مفعول کی مثال جیسے،
کُفَى بِالْمَرْءِ كَذْبًا أَنْ يُحَدِّثَ

يُكَلِّمَ مَا سَمِعَ۔ اور مبتدا پر سماعاً
جیسے بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ بجائے
حَسْبِكَ دِرْهَمٌ کے۔ اور اِذْ
فجائیہ کے بعد قیاساً جیسے خَرَجْتُ
فَاِذْ اِيْزِيدُ فِي الطَّرِيْقِ۔ جب میں
نکلا تو زید راستہ میں تھا۔ اور اس حال
پر جس کا عامل منفی ہو، جیسے فدا
رَجَعْتُ غَائِبٌ۔ میں ناکام نہیں
ہوا۔ کہیں عَنْ وَعَلَى دہلی کے
معنی میں بھی آتا ہے۔

الْبَابَا - بڑا عالم، گرجا کا سرور - پوپ۔ ج۔
بَابَاوَات -
بَابَاوِی - نسبت کے لیے۔
بَابَا - وہ کہ کسی سے ”بَابَا اَنْتَ
وَ اُنِّی“ کہنا، یعنی میرے ماں باپ
آپ پر قربان ہوں۔ الْوَلَدُ۔ بچہ کا
بابا کہنا

البُؤْبُؤُ اصل چیز کا درمیان حصہ، آنکھ کی پتلی، عالم، خوش بے، سردار۔
تباہی۔ دریائے فرات کے کنارے غزوہ کا بسایا ہوا شہر جو کھدائیوں کا دار السلطنت تھا۔

الْبَابُورُ - جادوگر۔
الْبَابُورُ وَالْبَابُوشُ - ایک قسم کا جوتا۔ ج۔
بَابُورِ -
الْبَابُورُ - اسٹیم اس کے عربی باخوۃ ہے
الْبَابُورُ وَالْبَابُورِ - بابونہ۔ زرد
پھول کی ایک بوٹی۔

بَابُجَر (ف) بَابُجَر و بَابُجَر - چلانا۔
 البَابُجَر و البَابُجَر - قسم، شکل، کہا جاتا ہے
 الناسُ بَابُجَر وَاِحْدٌ - لوگ ایک
 ہی طریقہ و روش کے ہیں۔ وہ ٹیکس، جو

بھیڑ بکری پر لیا جائے۔

الْبَاءُ ذَهْر - زہر مرہ -
 الْبَاءُ نَجَانٌ وَالْبَاءُ نَجَانٌ - نیکن
 بَاءٌ رَفِيعٌ بَاءٌ رَفِيعٌ وَابْتَأَرَ كَهَوْنًا - الشَّيْءُ
 کسی چیز کا پھپھانا اور ذخیہ کرنا -
 الْخَيْرُ - نیکی کا پرشیدہ طور پر کرنا -

آبَار۔ ۵۔ کسی کے لیے کنواں بنانا۔
ایسٹو۔ کنواں۔ ج۔ آبَار و آبَار و
بِتَار و آبُور (کلہ نمونہ ہے)
البَار۔ کنواں کھودنے والا۔

البُورَةُ - كُتِّهَا، حُلُّهَا، فَخِيرُهُ -

البَيْتَةُ وَالْبَيْتَةُ ذِيخِرُهُ.

ابن اَرَقَة - قرش کا چالیسواں حصہ - ج -
بادات -

الْبَارِئَامَجَّةُ وَالْبَرْئَامَجَّةُ - بحیث، آمد و
خروج کا حساب، حدیث کے راویوں اور
اسناد کتب کی فہرست۔

الْبَارُود - بارود.

الْبَارُودَةُ - بنوق وراقل - ج. بَوَارِيدُ

البَّازِ - ج. - بَزَائِمٌ وَبَزَائِمٌ، وَابْنُ

(البازُ والبازی) ج. بَوَازٍ و

بُزَاةٌ وَبُزَانٌ وَبِزَانٌ - بَازٌ -

البازِ داس۔ بازی کونی اور شکاری پرندہ یعنی
عالا۔ ج۔ بَزَادِرَق۔

البازار - بازار -

البازرگان۔ سوداگر، تاجر۔

البازهر۔ باوزهر۔

بٹوس رک، پنا سنا۔ مضبوط اور بہادر ہونا۔

صفت : بَنِيّ و بَنِيّ

بَلِيس (س) بُوْسَاوَبِيْسَاوَبُوْسَاو
اَلْحَنَظَرُ سَرَتْ مَاجَرَتْ مِنْ سِنَا مَقْلَسِ

ہونا۔ صفت (بائیں) جہ۔ بوس۔

بَتَّسَ - فعل ماضی جامد ہے۔ مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دراصل بَتَّسَ الرجل - تھا جس کے معنی ہیں کیسا بُرا آدمی ہے۔

أَبْتَسَ - مصیبتوں میں گرفتار ہونا۔ کسی کو مصیبتوں میں مبتلا کرنا۔

تَبَّأَسَ - مفلسی کا بہانہ کرنا، بتکلف مفلس بننا۔

رَبَّتْ أَسَ - ناپسند کرنا۔ ٹھکین ہونا۔ اور

اسی سے ہے "لَا تَبْتَسِ جَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ" یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پر غم نہ کیجیے۔

الْبَاسُ - شجاعت، دلیری، قوت، خوف

عذاب - لَا بَأْسَ بِهِ - اس پر

کوئی اعتراض نہیں، اس میں کوئی ہرج

نہیں۔ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ - تم پر کوئی

خوف نہیں۔ لَا بَأْسَ فِيهِ - اس

میں کوئی نقصان نہیں لَا بَأْسَ أَنْ

تَعْرِفُوا - تمہارے جاننے میں کوئی

دشواری نہیں۔

الْبُؤْسُ - جہ - الْبُؤْسُ وَالْهَاسَاءُ وَالْبُؤْسُ

شہرت، محتاجی - وَالْبَاسَاءُ - لڑائی

بھوک۔

بَنَاتٌ بَتَّسَ - مصیبتیں، آفتیں۔

بَتَّسَ وَبَتَّسَ - العذاب بھگت عذاب۔

الْبَاسِيْلِيُّ - ہانوں میں ایک رنگ کا نام ہے۔

بَاشَ - رئیس، سردار۔

بَاشَ - کاتب - ہیڈ کلرک۔

الْبَاشَا - پاشا - ایک لقب جو سلطان ترکی

مخصوص مراتب کے لحاظ سے عطا کیا

کرتا ہے۔ جہ - بِاشَاوَاتٍ وَبَاشَاتٍ

الْبَاشِيقُ - ایک شکاری پرندہ جس کو "باشہ"

کہتے ہیں۔

تَبَّأَطَ - لیٹنا۔ فارغ البال ہونا۔ مطمئن ہونا

تَبَّأَطَ عَنْهُ - کسی شے سے اعراض کرنا۔

بَاقَهُ (ن) بُوقًا وَابْقًا - علیہ

الْوَيْلُ - مصیبت و ہلاکت کا کسی پر

اجانک آجانا۔

الْبَاقَةُ - گل دستہ۔

بَوَّلَ رَكَّ، بَوَّلَةً وَبَالَةً - کمزور اور

پھوٹا ہونا۔ حقیر و ذلیل ہونا۔ صفت

بَيْئِلٌ -

الْبَالُ - میل مچھلی۔

الْبَالَةُ - کپڑوں کا بندل، کپڑوں کی گانٹھ

جو تاجر ایک دوسرے کو بھیجا کرتے ہیں۔

فَصِيحَ عَرَبِيٍّ اس کی اِبَالَةُ ہے۔

الْبَالُو - ناچ گھر، فصیح عربی اس کی مَرْقَصٌ

ہے۔ (جدید)

الْبَالُونُ - غبارہ۔ اس کی بھی فصیح عربی

مَشْطَا د ہے (جدید)

الْبَامِيَا - بھٹی۔

بَاكَ (ف) بَا هَا - سمجھنا۔ کہا جاتا ہے۔

"مَا بَاكَ لِأَمِيرٍ أَوْ لِأَمِيرٍ" اس

نے معاملہ کو نہیں سمجھا۔

بَايَ (ف) بَاذَا - عَلَيْهِمْ - لوگوں پر فخر

کرنا، تکبر کرنا۔

الْبَبُ - طریقہ۔

الْبَبْرُ وَالْبَبْرُ - شیر، جہ - بَبْرُ -

الْبَبْعَاءُ وَالْبَبْعَاءُ وَالْبَبْعَاءُ - طوطا، جہ

بَبْعَاوَاتٌ -

بَتَّأ (ف) بَتَّأ - یا لمكان کسی جگہ

اقامت کرنا۔

بَتَّعَ (ف) بَتَّأ وَبَتَّعَ - اِبْتَاتَا - کاٹنا

- الامر کسی کام کو نافذ کرنا فیصلہ

کرنا۔ الِیْنِیَّة - پختہ ارادہ کرنا۔

الرَّجُلُ - کسی شخص کو مشقت میں ڈالنا

بَتَّعَ - زاد سفر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الْوَعْدُ - پختہ وعدہ کرنا۔

تَبَّتْ - ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ توشہ لینا

لَا تُبَّتْ - کٹ جانا۔

الْبَاتُ - کاٹنے والا۔ دبلا۔ بَتَّعَ بَاتٌ

لازمی مع۔

الْمَبْتُ - گاڑھا کپڑا۔ جہ - بُتُّوت -

الْبَتَاتُ - توشہ، گھر کا سامان۔ جہ - اِبْتَتَ -

کسا جاتا ہے۔ "هُوَ عَلَى بَنَاتٍ آمِرٌ"

وہ کام کے قریب جا لگا۔

الْبَتَّةُ - بَتَّ کا اسم مفعول۔ الْبَتَّةُ وَ

بَتَّةٌ وَبَتَاتَا - قطعاً، یقیناً۔ کہا

جاتا ہے۔ "لَا أَفْعَلُهُ الْبَتَّةُ" میں

اس کو یقیناً نہیں کروں گا۔

الْبَتَاتُ وَ الْبَتِّي - مٹے کپڑے بننے والا

یا بیچنے والا۔

الْبَتِّيَّةُ - لڑکی کا بڑا پیپا۔ جہ - بَتَّاقِي -

بَتَّكَ (ف) بَتَّكَ - کاٹنا۔

بَتَّو (ف) بَتَّو - اِبْتَتَو - کٹ جانا۔

اِبْتَتَو - اللہ - اللہ کا کسی کو بے اولاد کر

دینا۔

الْبَاتُّ وَالْبَتَّارُ وَالْبَتَّارُ - شمشیر ہاں۔

تیزوہار والی تلوار۔ جہ - بَوَاتَرُ -

الْبَتَرُ - کٹا ہوا۔ دم کٹا۔ مِنْ الْحَيَاتِ

پھوٹا زبر یا سانپ۔ بے اولاد جس کی

نسل باقی نہ رہے۔

الْبَتَّرَانُ - غلام، جنگلی گدھا۔ مَوْنَت

بَتَّرَاءُ - وَالْبَتَّرَاءُ مِنَ الْخَطْبِ -

وہ خطبہ جو محمد الہی سے خالی ہو۔

بَتَّعَ (ف) بَتَّعَ - مضبوط گردن یا مضبوط

مفاصل والا ہونا۔ صفت۔ اِبْتَتَعَ -

مَوْنَت بَتَّعَ - جہ - بَتَّعَ -

بَتَّعَ (ف) بَتَّعَ - مَذَلُ - پیچھے رہ جانا۔

کہا جاتا ہے۔ "بَتَّعَ فِي الْأَرْضِ" وہ

دور تک چلا گیا۔

بَتَّعَ (ف) بَتَّعَ - الْمَبِيدُ - شراب بنانا

الْبَتَّعُ - پڑگوشت، موٹے جوتوں اور موٹی

گردن والا ہونا۔ مکمل، سب، کہا جاتا

ہے۔ "جَاءُوا أَكْلَهُمْ اِبْتَعُونَ"



مجھے مصیبتیں حاصل ہوئیں۔

الْبَجَرَاءُ - سخت اور بلند زمین - وہ زمین جو گھاس نہ اگائے۔

الْبَجَارِمُ - مصیبتیں۔

بَجَسَ رَن (مَنْ) بَجَسًا وَبَجَسَ -

الماء پانی جاری کرنا۔ بہانا۔ المجرم زخم چیرنا۔

بَجَسَ - فلاناً گال دینا۔

بَجَسَ وَانْبَجَسَ وَتَبَجَسَ - الماء پانی کا جاری ہونا۔ پھوٹنا۔

الْبَجَسُ وَالْبَجِيسُ - بننے والا۔ پھوٹنے والا۔ عین بَجِيسُ - بہت پانی

والا چشمہ۔ ماءٌ بَجِيسٌ - بہتا ہوا پانی۔

بَجَعَهُ رَفًّ بَجْعًا - تلواریں سے کاٹنا۔

الْبَجْعُ - ایک لمبی چوڑی چوچ والا پرندہ۔ جس کی چوچ کے نیچے ایک بڑا پوٹا ہوتا

ہے۔ لقی۔

بَجَلَ رَن، وَبَجَلَ رَسًّ، بَجَلًا وَبُجُولًا -

خوش و شادمان ہونا۔ خوش حال و فراخ حال ہونا۔ صفت۔ بَاجِل -

بَجَلَ رَن، بَجَالَةً وَبُجُولًا - معزز ہونا

با شرف ہونا۔ صفت۔ بَجِيلٌ -

أَبْجَلُهُ - الشیء کوئی چیز کافی ہونا۔

بَجَلَهُ - کسی کی تعظیم کرنا۔

بَجَلَ - حرف جواب - بمعنی نعمہ رہاں،

اسم فعل، بمعنی - حَسِبْتُ رَکَانِی

بَجَلْتُ - تمہارے لیے کافی ہے۔

الْبُجَلُ - بڑا بہتان۔

الْبَجِيلُ - وسیع و فراخ۔

الْأَبْجَلُ - پاؤں یا ہاتھ میں ایک موٹی رگ۔

جہ۔ أَبَاجِل -

بَجَمَ رَسًّ بَجَمًا وَبُجُومًا - ڈیر یا عاجزی

کی وجہ سے چپ ہونا۔

بَجَمَ - تیز نظر ڈالنا۔ آہستہ ہونا اور

دیر لگانا۔

الْبَجَمُ - جھاؤ کا پھل۔ واحد۔ بَجْمَةٌ -

الْبَجْمُ - بڑی جماعت۔

بَحَّرَ رَسًّ، بَحَّادًا وَبَحَّادًا وَبُحُوحًا وَ

بَحَّاحًا وَبُحُوحَةً وَبَحَّاحَةً -

گلو گرفتہ ہونا۔ بیٹھی ہوئی آواز والا ہونا

صفت (أَبَحَّ) مَوْنُثٌ بَحَّاءٌ وَ

بَحَّةٌ، جہ۔ بَحَّةٌ -

أَبَحَّحَهُ وَبَحَّحَهُ - کسی کی آواز کو بٹھانا۔

اور بھاری کرنا۔

الْبُحَّةُ - آوازیں بھاری پن اور اس کا

بیٹھا ہونا۔

بَحَّجَّجَهُ وَتَبَحَّجَّجَهُ - ابھی طرح ٹھہرنا۔

تَبَحَّجَّجَهُ - الدار گھر کے وسط میں ٹھہرنا۔

تَبَحَّجَّجَتِ الْعَرَبُ فِي لُغَاتِهَا -

عرب کی لغت میں وسعت پیدا ہو گئی۔

بُحَّوْحَةٌ - الدار گھر کا وسط یا درمیان۔

الْعَبِيشُ - زندگی کی فساد خیزی یا

عمدگی۔

الْمَحْبَبَةُ - جماعت۔

الْمَحْبَبَاتُ - بدخورت۔

بَحَّتْ رَن، بُحُوتُهُ - خالص ہونا۔

بَاحَتَهُ - الْوَدَّ - کسی کے ساتھ خالص

دوستی کرنا۔ فلاناً کسی کو بتانا۔

الْبَحْتُ - خالص۔ شرباً بَحْتُ - شراب

خالص، بغیر ملاوٹ کے۔ مَسْتُکٌ

بَحْتُ - مشک بغیر کسی آمیزش

کے۔ عَرَبِيٌّ بَحْتُ - خالص نسب

والاعربی مَوْنُثٌ - بَحَّتَهُ - لفظ

بَحْتُ واحد تشنیہ، جمع مذکر مَوْنُثٌ

سب کے لیے آتا ہے۔ اگر چاہو، تو

مَوْنُثٌ تشنیہ و جمع لاسکتے ہو۔

الْبُحْتُ وَالْبُحْتُرى - پست قد،

گھٹیلے بدن والا۔

بَحَّتْ رَن، بَحَّشًا - فی الارض زمین

کھودنا۔ اور یہ مثل اسی سے ہے کَابِشًا

عَنْ حَتْفِهِ وَبِظُلْفِهِ کہ وہ اپنی

ہلاکی کا سامان خود میا کر رہا ہے۔ عندہ

تفتیش کرنا۔

بَا حَتْفًا - بحث کرنا گفتگو کرنا۔

تَبَّاحَتُوا - باہم گفتگو کرنا۔ آپس میں بحث و

مباحثہ کرنا۔

تَبَحَّثَ وَابْتَحَثَ وَاسْتَبَحَثَ -

عندہ تحقیق کرنا۔ تفتیش کرنا۔

الْبَحْتُ - مص - مٹی کے نیچے تلاش کرنا تفتیش،

تحقیق، سونے وغیرہ کی کان۔ جہ۔

أَبْحَثَ -

الْبَحِيثُ - سمید، راز۔

الْبَحَثُ - بہت بحث کرنے والا۔

الْمَبْحَثُ - بحث، یا بحث کی جگہ۔ جہ۔

مَبَّاحٌ - مَبَّاحٌ - البَحْرُ - نامعلوم

جگہ، یا بنجر زمین۔

الْمَبْحَثَةُ - بحث و تدقیق۔

بَحَّشُوا - الشیء بَحَّشُوا - بکھیرنا۔ جُدا جُدا

کرنا۔ کھولنا۔

تَبَحَّشُوا - بکھیرنا۔ جُدا جُدا ہونا۔ ظاہر ہونا۔

بَحَّرَ رَسًّ، بَحَّارًا - ڈرے حیران یا مہوت

ہونا۔ سخت پیاس کے سبب پانی سے

سیراب نہ ہونا۔ صفت (دَبَّحُو)

بَحَّرَ رَن، بَحَّارًا - الارض زمین کا

چھینا، پھاڑنا۔ الناقَةُ - اونٹنی کے

کان چرنا۔ صفت مفعولی - بَحَّيْرَةٌ

جہ۔ بَحَّارٌ وَبَحُّورٌ -

أَبَحَّرَ - سمندر پر سفر کرنا۔ الماء پانی

کا ٹکین اور کھاری ہونا۔ الارض زمین

کا دولہا ہونا۔

تَبَحَّحَ - فی العلم وسیع علم کا مالک ہونا۔

اسْتَبَحَرَ - فی العلم المال وسیع العلم

یا کثیر المال ہونا۔

الْبَحْرُ - سمندر، کھاری پانی، بڑا دریا، تصغیر





اَبْخُور۔ جر۔ اَبْخُور و بْخُور و
بَحَار۔ البَحْرُ الْمُتَوَسِّطُ او
بحر الروم۔ یورپ، ایشیا، اور
افریقہ کے درمیان کا سمندر۔ البحر
المُحِيط۔ پانچ براعظموں کو گھیرنے
والا سمندر۔ بحر اطلانتک۔ جو
سمندر یورپ، افریقہ، اور امریکہ کے
درمیان ہے۔
البَحْرَةُ۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ پست
علاقہ۔ بڑا باغ، حوض۔ جر۔ بَحَار
و بْخُور۔
البَحْرِيُّ۔ سمندری، بری کی ضد۔ و
البَحَّارُ۔ ملاح۔
البَحْرِيَّةُ۔ جھیل۔ البَحْرُ مَبْرُورٌ، جِزْرٌ، يَتَوَقَّفُ
فَعُولٌ۔ البَحْرُ الْبَاحُورُ، مَآءٌ، جَوْلَانِي كِي سَمْت
گرمی۔
البَحْرَانُ۔ شدت مرض کے باعث قوت
مدرکہ میں خلل پیدا ہو جانا، امراض مادہ
میں اچانک تغیر۔
البَحْرَيْنِ۔ ایک شہر ہے۔ نسبت کے لیے
بَحْرَانِي۔ خلاف قیاس ہے۔
بَحْرٌ (دُن) بَحْرًا۔ فِي النُّوْمِ۔ سونے میں
غرائے لینا۔ غصہ ٹھنڈا کرنا۔
بَحْرٌ۔ اسم فعل، تعریف و رضامندی کے
اظہار کے لیے یعنی شاباش، افسرین
مرحبا اور تاکید کے لیے اس کو مکرر لاتے
ہیں۔ اور کہتے ہیں بَحْرٌ، بَحْرٌ، کسرہ
کے ساتھ یا تھوین سے۔
بَحْرِيَّةُ۔ فِي النُّوْمِ۔ نیند میں غرائے لینا۔
الْبَحْرِيَّةُ۔ اونٹ کا بلبلا نا اور منہ کا
جھاگ سے بھر جانا۔ الرجلُ كَيْسِي كُو
شاباشی دینا۔
بَحْرِيَّةٌ وَتَبَحْرِيَّةٌ۔ الحرُّ گرمی کا کم ہونا
بَحْرَتُهُ (دُن) بَحْرًا۔ مارنا۔
بَحْرَتُ۔ الرجلُ۔ بزدل ہونا۔

بَحْرَتُهُ۔ لا جواب کر دینا۔
البَحْرَتُ۔ نصیب، فارسی لفظ ہے، اس
کی فصیح عربی خطبہ ہے۔
البَحْرِيَّةُ وَالْمَبْحُورَةُ۔ نصیبہ در۔
خوش قسمت۔
بَحْرَتُ بَحْرَتُهُ وَتَبَحْرَتُهُ۔ ناز سے چلنا
متکبرانہ چال چلنا۔
البَحْرَتِيَّةُ وَالْمَبْحُورِيَّةُ۔ خود
پسندانہ چال۔
بَحْرَتُ (دُن) بَحْرًا۔ الْقِدْرُ۔ ہانڈی کی
بھاپ نکلتا۔
بَحْرُ (دُن) بَحْرًا۔ الْقَمْرُ۔ گندہ دہن
ہونا۔ صفت (دُن بَحْرُ)
بَحْرٌ۔ بھاپ نکالنا۔ بَحْرَةٌ وَبَحْرٌ
علیہ۔ دھونی دینا۔ دھونی دے کر
خوشبودار بنانا۔
تَبَحْرٌ۔ دھونی لینا۔ دھونی سے خوشبودار ہونا
البَحَارُ۔ بھاپ۔ جر۔ اَبْخُورَةُ۔
البَاخُورَةُ۔ اسٹیم۔
البَخُورُ۔ ہر وہ شے جس سے دھونی دی
جائے۔ جر۔ اَبْخُورَةُ وَبَخُورَاتُ۔
بُخُورٌ مَرِيحٌ وَبُخُورٌ الْاَسْرَادُ
بُخُورٌ الْاَسْرَادُ وَبُخُورٌ السُّودَانُ وَ
بُخُورٌ الْبَرْبَرِ۔ مختلف قسم کی
نباتات ہیں۔
الْمَبْحُورَةُ۔ عود سوز۔
الْمَبْحُورَةُ۔ باعث گندہ دہنی، اسی سے وہ
روایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ
سے منقول ہے "اَيَاكُمْ وَنَوْمَةُ
الْعَدَاةِ فَإِنَّهَا مَبْحُورَةٌ مَجْفَرَةٌ
مَجْفَرَةٌ" صبح کو سونے سے پرہیز کرو
اس لیے کہ اس سے گندہ دہنی، فساد
بدنی اور طبیعت کی خشکی پیدا ہوتی ہے
بَخَزُ (دُن) بَخْزًا۔ عَيْنُهُ۔ کسی کی
آنکھ پھوڑنا۔

بَخْسَهُ (دُن) بَخْسًا۔ گھٹانا۔ اور اسی سے
ہے "لَا تَبْخُسْ أَخَاكَ حَقَّهُ" تو
اپنے بھائی کا حق نہ گھٹا۔
بَخْسٌ۔ عَيْنُهُ۔ آنکھ پھوڑنا۔
تَبَاخُسٌ۔ الْقَوْمُ۔ لوگوں کا ایک دوسرے
کو نقصان پہنچانا۔
البَخْسُ۔ مِم۔ ناقص۔ قرآن کریم میں ہے
"وَشَرُّهُ شَمْنٌ بَخْسٌ" یعنی ان
کو گھٹیا قیمت میں بیچ دیا۔
البَخْسُ۔ بارانی زمین۔
البَخْسِيُّ۔ بارانی فصل۔
الْأَبَاخُسُ۔ انگلیاں۔
الْمَبْخِشِيَّةُ۔ بخشش، عطیہ، انعام، اس
کی فصیح عربی رَاشِيْنٌ یا حُلُوَانٌ ہے۔
بَخْصُ (دُن) بَخْصًا۔ الرجلُ۔ کسی کی
آنکھ کے اوپر یا نیچے غدہ ہونا۔
صفت اَبْخُصٌ۔ مُؤَنَّثٌ بَخْصَاءُ
جر۔ بَخْصٌ۔
بَخْصُ (دُن) عَيْنُهُ۔ آنکھ نکال لینا۔
تَبْخُصٌ۔ تیز نظر سے دیکھنا۔ پلکوں کا الٹ
جانا۔
البَخْصُ۔ قَدَمٌ کا گوشت، انگلیوں کی جڑ
کا گوشت۔
مَبْخُصُ الْقَدَمَيْنِ۔ پتلے پاؤں والا۔
قَدَمٌ میں کم گوشت رکھنے والا۔
بَخْعُ (دُن) بَخْعًا۔ نَفْلٌ۔ غم یا غصہ سے
اپنے آپ کو ہلاکت تک پہنچانا۔ الشَّاعَةُ
بکری کو ذبح کرنے میں گدی تک کاٹ
دینا۔ لَهْ لُصْحَةٌ۔ بے لوث نصیحت
کرنا۔ خالص نصیحت کرنا۔
بَخْعُ (دُن) يَخُوعًا وَبَخَاعَةً۔
پال حق۔ حق کا اقرار کرنا۔ حق مان لینا۔
بَخَقُ (دُن) بَخَقًا وَبَخَقٌ۔ عَيْنُهُ
آنکھ کافی کرنا۔ آنکھ پھوڑنا۔ رَجُلٌ
أَبْخَقٌ وَبَاخِقٌ وَبَخِيقٌ وَبَخُوقٌ

کا نا آدمی۔ عین بَخَاءُ وَاِخْفَہُ
وَمِنْ خِفَہُ وَمِنْ خِفَہُ۔ کافی آنکہ۔
بَخِشْتُ دس، بَخَقَا۔ عینہ۔ بُری
طرح کافی ہونا۔
بَخِلَ دس، بَخَلَّ وَبَخَلَ دس، بَخَلَّ
بَخِلَ ہونا، کنجوس ہونا۔ ج۔ بَخِلَ
- علیہ وعینہ۔ کسی سے بخل کرنا۔
بَخِلَ (بَخِلَ) ج۔ بَخِلَ۔
بَخِلَ۔ بخل ہونے کا الزام لگانا۔
أَبْخَلَ۔ بخل پانا۔
الْبَخَالُ وَالْبَخَالُ وَالْمَبْخَلُ وَالْبَخَلُ
بہت کنجوس۔
الْمَبْخَلَةُ۔ وہ چیز جو بخل و کنجوسی کا باعث
ہو۔ اور اسی سے ہے۔ "الْوَلَدُ مَبْخَلٌ"
مَجْبُولٌ۔ لڑکا بخل و ہزدلی کا باعث
ہوتا ہے۔
الْبَخِشُ۔ کنسوپ، ایک قسم کا زنا نہ رہند
بَخَارِفَ بَخَا۔ غَصْبَہُ۔ غصہ ہمتنا۔
بَدَأَ (بَدَأَ)۔ رَجُلٌ۔ ٹانگیں کھولنا۔
الرَّجُلُ عَنِ الشَّيْءِ۔ کسی چیز کو کسی سے
دور کرنا۔ بٹانا۔
بَدَأَ (دس) بَدَأَ۔ زیادتی گوشت کی وجہ
سے دونوں رانوں میں فاصلہ ہونا۔
بَدَأَ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کو بکھیرنا، متفرق کرنا۔
- الرجلُ۔ ٹھکانا۔
بَدَأَ مَبَادِئَ وَبَدَأَ۔ تبادلہ سے
فروخت کرنا۔ القومُ فی السَّفْوِ۔
ہر ایک کا اپنا اپنا زاد سفر لینا اور پھر
طا کر خرچ کرنا۔
أَبَدَ۔ الشَّيْءُ بَيْنَهُمْ۔ ہر ایک کو اس
کا حصہ دینا۔ يَدَا۔ زمین کی طرف
ہاتھ بڑھانا۔
تَبَدَّدَ۔ بکھیرنا، متفرق ہونا۔ القومُ
الشَّيْءِ۔ آپس میں حصے تقسیم کر لینا۔
لَبَتَدَ۔ الرَّجُلَانِ فَلَانًا بِالضَّرْبِ۔ وہ

دونوں طرف سے اس کو مارنے لگے۔
تَبَدَّدَ۔ القومُ۔ میدان کارزار میں نکل کر
اپنے اپنے مد مقابل پر حملہ کرنا، دود و
آدمیوں کا فاصلہ سے گذرنا۔
اِسْتَبَدَّ۔ بَدَأَ۔ خود کو ترجیح دینا، مخصوص
کر لینا۔ الامرُ بفَلَانٍ کسی بات
کا لیے قابو ہو جانا۔
الْبَدَدُ وَالْبَدِيدُ۔ مثل ونظیر۔
الْبَدَدُ۔ چارہ کار، حفاظت کی جگہ، بھاگنے
کی جگہ، تم کہتے ہو: لَا بَدَدَ مِنْ هَذَا
یہ لازمی ہے۔ بدلہ، عوض۔
الْبَدَدَةُ وَالْبَدَادُ۔ حصہ۔
الْبَدَادُ۔ مقابلہ کے لیے نکلنا، ہسرگ
کہا جاتا ہے۔ لَقُوا بَدَادَهُمْ۔
وہ لوگ اپنے حریفوں سے ملے۔
بَدَادَ وَبَدَادَ۔ یعنی ہر شخص اپنے اپنے
ہسر کو پھیلے۔ وَجَاءَتِ الْخَيْلُ
بَدَادَ۔ گھوڑے متفرق متفرق آئے
الْبَدَدُ وَالْبَدَادَةُ۔ طاقت، حاجت۔
الْبَدَدُ۔ وہ جس کے ہاتھ یا رانوں میں قتل
ہو۔ بڑے جسم والا مونث (بَدَاءُ)
کہا جاتا ہے۔ ذَهَبُوا أَبَادِيْدَ
وَتَبَادِيْدَ۔ یعنی وہ لوگ متفرق ہو
گئے اور بکھر گئے۔ وَطَبَرُوا أَبَادِيْدَ
وَتَبَادِيْدَ۔ متفرق و بکھرے ہوئے
ہندے۔
الْمُسْتَبَدَّ۔ وہ شخص جو کام کو شروع
کرنے کے بعد اس کو ختم کیے بغیر نہ
چھوڑے۔
بَدَأَ دَف، بَدَأَ وَابْتَدَأَ وَتَبَدَّدَ۔ الشَّيْءُ
وہ۔ شروع کرنا۔ پہلے کرنا۔
بَدَأَ۔ يَفْلَانٍ۔ آگے بڑھانا۔
بَدَأَ۔ الشَّيْءُ۔ شروع کرنا، پیدا کرنا۔
بَدَأَ أَوْ أَبَدَ۔ أَلَلَهُ الْخَلْقُ۔ اللہ نے
مخلوق کو پیدا کیا۔ صفت بَادِي و

مُبْدِي۔
أَبَدَ۔ الرجلُ۔ تعجب انگیز کام کرنا۔
عجیب کام کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ فَلَانٌ
مَا يُبْدِي وَمَا يُعِيدُ۔ یعنی فلاں
کچھ بھی نہیں بولتا۔
بَدَأَ أَل۔ شروع کرنا، پہلے رکھنا۔ فضیلت
دینا۔
الْبَدَدُ وَالْبَدَادَةُ وَالْبَدِيدَةُ
شروع۔ ابتداء۔ کہا جاتا ہے۔ أَفْعَلُ
بَدَأَ وَبَدَعُ وَبَدَعُ وَأَوَّلَ بَدَعُ
وَبَادِي بَدَعُ وَبَدَعُ ذِي
بَدَعُ۔ یعنی میں اس کو ہر چیز سے
پہلے کروں گا۔
وَالْبَدَادَةُ۔ کسی جگہ کے لیے سفر کی ابتداء
تم کہتے ہو: اِنْ تَرَيْتَ الْفَرَسَ
لِلْبَدَادَةِ وَالرُّجْعَةِ۔ میں نے
گھوڑے کو آمدورفت کے لیے کرایہ
پر لیا۔ بدع کی جمع أَبْدَاعُ و
بَدَوُءُ ہے۔
الْمَبْدَأُ۔ (بَدَأَ) سبب۔ ج۔ مَبْدَاوِی۔
الْمَبْدَأُ۔ اَوَّلُ، پہلا، وہ اسم مسدالیہ
جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔
بَدَعُ دَف، بَدَعَا۔ بِالْعَصَا۔ لایٹی
سے مارنا۔ بالسَّيْرِ۔ راز کھول دینا۔
تَبَادَحُوا۔ بالشَّيْءِ باہم مل کر پھینکنا۔
الْبَدَحُ۔ ج۔ بَدَوُحُ وِبَدَاحِ و
(الْبَدَحُ) ج بَدَحُ وَالْبَدَحَةُ
کشادہ زمین۔
بَدَحُ دَف (ض) وِبَدَحُ دَف، بَدَحَاوِ
بَدَاخَةُ۔ بلند مرتبہ ہونا۔ صفت
(بَدَاخِ) ج۔ بَدَخَاوِ۔
تَبَدَّحَ۔ علیہ۔ بڑا بننا۔
بَدَرَدَن، بَدَوَلَا۔ اِلَى الشَّيْءِ۔ کسی چیز
کی طرف جلدی کرنا۔ اِلَى الشَّيْءِ۔
کسی چیز کے لیے کسی سے سبقت کرنا۔





بَادِرٌ مَبَادِرَةٌ وَبَدَا أَرَا - إِلَى الشَّيْءِ كَسَى
چیز کی طرف لپکنا۔ جلدی کرنا۔ الشَّيْءُ
وقوع سے پہلے کرنا۔

بَادِرٌ - فَلَانَا الشَّيْءُ وَالْيَدِ - كَسَى جِزْجِزِ
پہلے کسی سے سبقت لے جانا۔ آگے
بڑھ جانا۔

تَبَادَرٌ - الْقَوْمُ - جلدی کرنا۔
تَبَادَرٌ وَابْتَدَرَ - الْقَوْمُ امْرَأً - كَسَى كَامِ
کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے
جانے کے لیے آگے بڑھنا۔

أَبْدَرَ - يَهْدِيهِمْ كَسَى جِزْجِزِ
چودھویں رات میں چلتا۔

الْبَدَرُ - يَهْدِيهِمْ رَاتٍ كَسَى جِزْجِزِ
تھالی۔ جہ۔ بُدُوْرُ

الْبَادِرُ - جلدی کرنے والا۔ سبقت کرنے والا
جہ۔ بُدُوْرُ

الْبَدْرِىُّ - جَارٌ سَمِيحٌ كَسَى جِزْجِزِ
الْبَدْرِىُّ - مَسَابِقَتٌ كَسَى جِزْجِزِ
”اَسْتَبَقْنَا الْبَدْرِىُّ“ ہم نے ایک
دوسرے سے سبقت لے جانے کے
لیے دوڑ کی۔

الْبَدْرِىُّ - دَسْ هَزَارٌ هَم - مِنَ الْمَالِ -
بڑی مالیت، دس ہزار درہم کی بھیلی۔

جہ۔ يَدْرُوْ بَدُوْر - كَسَى جِزْجِزِ
”يَهْدِي الْبَدُوْرُ“ یعنی فلاں شخص ہزاروں
کی بھیلیاں ہمہ کرتا ہے۔

الْمَبْدَرَةُ - بَكْرِيٌّ كَسَى جِزْجِزِ
الْبَادِرَةُ - نِيْزِي وَشَتَابِي بَاتِيْزِي كَسَى جِزْجِزِ
کی خفیف الحرکتی۔ جہ۔ بُدُوْرُ

بَاتَا بِهٖ بِدَرَتٍ مِنْهُ بُدُوْرُ
عَضَبٌ - اس سے غصہ کی حرکات
مہرز ہوئیں۔

الْبَادِرَةُ - تِيرٌ كَسَى جِزْجِزِ
”اَصَابَتْهُ بَادِرَةُ السَّوْحِ“ اس کو
تیر کی ٹوک لگی، مونڈھے اور گردن کے

درمیان کا گوشت۔

بَدَارٌ - اس فعل بمعنى اَسْرَعَ (جلدی کر)
الْبَيْدَارُ - كَهْلِيَان - جہ۔ بِيَادِرُ

بَدَعٌ دَف، بَدَعَا - الشَّيْءُ - كَوْنُ شَيْءٍ
ایجاد کرنا۔ کوئی چیز بغیر نمونہ کے بنانا۔
ابتداء کرنا۔

بَدَعٌ دَف، بَدَعَا وَبَدَعَا
لَا ثَانِي هُونَا - بے مثال ہونا۔

بَدَعَا - كَسَى كَوْنُ شَيْءٍ مَهْمَا
أَبْدَعٌ - كَسَى كَامِ كَوْنُ شَيْءٍ سَمِيحٌ - بِلَهْ
بے مدد چھوڑ دینا۔

وَابْتَدَعَ - الشَّيْءُ - اِيْجَادُ كَرَنَا - الرَّجُلُ
بدعت نکالنا۔

تَبَدَعَ - بدعتی ہونا۔
اَسْتَبَدَعَ - الشَّيْءُ - كَسَى جِزْجِزِ كَوْنُ شَيْءٍ
نادر سمجھنا۔

الْمَبْدَعُ - اَنُوكَا، نَا تَجْرِبَةُ كَارِشْفِصْ، كَمَا جَاتَا
”فَلَانٌ بَدَعٌ فِي الْاَمْرِ“ فلاں نے
اس کام کو پہلی بار کیا۔ جہ۔ اَبْدَاعُ
وَبُدُعُ

الْمَبْدَعَةُ - وَهْ جِزْجِزِ هُوَ بَغِيْرُ كَسَى سَالِقِ مِثَالِ
کے بنائی جائے۔ مذہب میں نئی رسم
جہ۔ يَدْعُ

الْبَدِيْعُ - خَدَاتَعَالِ كَسَى اَسْمَاءِ مِثَالِ
ایک اسم ہے۔ کہا جاتا ہے ”اَللّٰهُ
بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ یعنی
اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا موجد ہے۔
انوکھی چیز۔ انوکھی چیز بنانے والا۔ مِثَالِ
نئی مشک۔ عَلِمَهُ الْبَدِيْعُ - وَهْ عِلْمُ
جس سے کلام کی لفظی و معنوی خوبیاں
معلوم ہوں۔

الْمُبْتَدِعُونَ - بدعتی لوگ۔
بَدِعٌ دَسْ، بَدَعَا - زَمِيْنٌ پَر گھسیٹنا۔

بَا لَشَرِّ اَوْ بَا لْقَدَارِ - ہوائی یا گندگی
سے آلودہ ہونا۔

بَدَعٌ دَف، بَدَعَا - الْعَجُوْرُ اَوْ الْكُوْرُ -
اخروٹ یا بادام توڑنا۔

بَدَعٌ دَف، بَدَعَا - پَانْجَامِ مِثَالِ
کرنا۔ صفت بدع۔

بَدَلٌ دَف، بَدَلَا وَابْدَلٌ وَبَدَلٌ -
الشَّيْءُ - بَدَلْنَا - بَدَلْنَا مِثَالِ
بَدِلٌ دَسْ، بَدَلَا - بَدِيْوِيْ اَوْ جُوْرُوِيْ
درو والا ہونا۔

بَدَلٌ وَابْدَلٌ - الشَّيْءُ مِنْهُ - بَدَلْنَا
لِیْنَا - وَبَدَلْنَا الشَّيْءَ شَيْئًا اٰخَرَ -
بدل دینا۔ کہا جاتا ہے ”بَدَلْنَا اللّٰهَ
الْخَوْفَ اٰمَنًا“ اللہ نے خوف کو امن
سے بدل دیا۔

بَادَلَهُ - بَدَلَا - تَبَادُلًا مِثَالِ
تَبَدَّلَا وَتَبَادَلَا - ثَوْبِيْهِمَا - دَوْنُوِيْ
سے ہر ایک نے اپنے کپڑوں کے بدلہ
دوسرے کے کپڑے لیے۔

وَتَبَدَّلَ - بَدَلْنَا - مَتَغِيْرٌ هُونَا -
تَبَدَّلَهُ، وَاسْتَبَدَّلَهُ - بَدَلَا - بَدَلْنَا
لِیْنَا - مِثَالِ تَبَدَّلَتِ الدَّارُ بِاَنْسِيْهَا
وَصَحْشًا، لَكَّرُكَ اَلْسِيْتِ وَحَشَتْ سَمِ
بدل گئی۔

الْبَدْلُ وَالْبَدَلُ وَالْبَدِيلُ - بَدَلْنَا
جَانِشِيْنِ سَمِي، فَيَاضِي، شَرِيفٌ، كَمَا جَاتَا
ہے ”رَجُلٌ يَدْلُ وَبَدِيْلٌ“ جہ
أَبْدَالٌ وَبَدَلَا -

الْبَدَلُ - جُوْرُوِيْ اَوْ اَلْقُوْلُ كَايَا بَدِيْوِيْ
اور اسی سے ہے ”رُبَّ بَدَلٍ شَرٌّ
مِنْ بَدَلٍ“ یعنی بہت سے عوض بڑی
کے دروسے بُرے ہیں۔

الرَّدِيْدَالُ - وَهْ مَقْدِسٌ لَوْگِ جِن سَمِ
کبھی خالی نہیں رہتی، جب کوئی ان میں
سے دنیا سے اٹھتا ہے تو دوسرا اس
کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔

الْبَدَلُ - كَهَانَةُ كَسَى جِزْجِزِ
کھانے کی چیزیں نیچنے والا، عام

www.waseemziyai.com



صفت رباذخ (ج)۔ بواذخ۔ و
 (بذیخ)۔ ج۔ بذخاء۔
 باذخہ۔ فخر کرنے میں کسی سے مقابلہ کرنا۔
 البذخ۔ متکبر۔
 البذخی۔ بڑا۔
 البیذخ۔ موٹے جسم والی عورت۔
 بذرن، بذرا۔ الحث۔ بیج بونا۔
 المال۔ مال فضول خرچی میں اڑانا۔
 العلم۔ پھیلانا۔ اشاعت کرنا۔
 الارض۔ اگانا۔
 بذر۔ المال۔ فضول خرچی میں اڑانا۔
 صفت ریز و ریزار و
 تبذارة (ج)۔
 تبذروا تبذروا متفرق ہونا۔ تبذروا
 الماء۔ پانی کا متغیر ہو کر پیلا جانا۔
 البذر۔ بیج، نسل، اولاد، کہا جاتا ہے
 "رائہ بذر سوئے" وہ بری نسل
 کا ہے۔ ج۔ بذور و بذار۔
 البذر والبذر والبذر البذر و
 استبذروا۔ بہت باتوں پر۔ بکو فضول
 خرچی کرنے والا۔
 البذر و البذر۔ چغل خور۔ وہ جو
 اپنے راز کو نہ چھپا سکے۔ ج۔ بذر۔
 البذر۔ فضول خرچی کرنے والا۔
 البذر۔ باطل، بہت فضول خرچ۔
 البذر۔ بہت۔
 بذرق۔ المال۔ بکھیرنا۔ فضول خرچی و
 اسراف سے کام لینا۔ حفاظت کرنا۔
 البذر۔ دربان۔ محافظ۔ راہبر۔
 بذعہ دون، بذعاً۔ ڈرانا۔ خوفزدہ
 کرنا۔ بذع الاناء۔ برتن کا
 ٹپکنا۔
 آبدعہ۔ ڈانا۔ خوف زدہ کرنا گھبراہٹ
 میں ڈالنا۔
 البذع۔ برتن سے ٹپکا ہوا پانی۔

البذع۔ خوف، ڈر۔
 البذع۔ خوفزدہ۔
 ابذعوا متفرق ہونا۔ ابذعوا الخیل
 کسی چیز کی طلب میں دوڑنا۔
 الباذق و الباذق۔ انگوڑا شیوہ قدرے
 پکا ہوا بونشہ آور ہو۔
 الباذق۔ پیادے۔
 البیذق۔ سفر کا رہنا۔ پیادہ۔ ج۔
 بیاذق۔
 البیذقة۔ وہ شخص جس کا قول عمل سے
 بہتر ہو۔
 ابذقوا متفرق ہونا۔ بھاگنا۔
 بذل دن من، بذلا۔ الشیء۔ دینا۔
 سخاوت کرنا۔ کہا جاتا ہے بذل
 نفسه ذون او عن فلان
 اس نے فلاں کی حمایت میں اپنی جان
 لڑادی۔ اس نے اپنے آپ کو اس
 پر فدا کر دیا۔ صفت رباذل و
 بذول، صفت مفعول (مبذول)
 بذل جھڈکا، اس نے پوری
 کوشش کی۔ وابذل الثوب۔
 کام کے وقت کپڑا پہنا، یا روزانہ
 استعمال کرنا۔
 کلام، مبذل۔ روی کلام گھٹیا کلام
 کثیر الاستعمال کلام۔
 سیف، صدق المبذل۔ تیز دھار
 والی تلوار۔
 تبذل و ابذل۔ دقار سے گرا ہوا ہونا
 چھچھورا ہونا۔ ابذل۔ روزانہ پہننے
 کے کپڑے استعمال کرنا۔
 البذل۔ عطا، بخشش۔ رجل بذل
 فیاض آدمی۔
 البذل۔ من الثیاب۔ روزانہ پہننے
 کے کپڑے۔
 البذل والمبذل۔ بہت داد و دہش

کرنے والا۔ بڑا فیاض۔
 المبذل والمبذلة۔ روزانہ پہننے کے
 کپڑے۔ پھٹا پراں کپڑا۔ ج۔ مبازل۔
 بذل لخر بذل لخر و بذل لخر۔ قول کے
 مطابق عمل نہ کرنا۔ صفت (مبذل لخر)
 و بذل لخر۔
 بذم۔ ذم، بذامہ۔ دورانہش
 ہونا اور اپنی رائے پر پختگی کے ساتھ
 جم جانا۔ صفت بذی۔
 البذم۔ دورانہشی۔ ناک اندیشی۔ قوت،
 طاقت، رائے کی عمدگی، مردت۔
 المبذم۔ مضبوط اونٹنی۔
 بذان بذو او ابذی ابذاع۔
 علیہ۔ فحش بننا۔ بدزبانی کرنا۔
 بذو ذک، بذو و بذو و بذو و بذو
 ہونا۔ فحش کلام ہونا۔ صفت بذی۔
 ج۔ ابذیاء۔ مؤنث بذیۃ۔
 البذاع۔ بیہودہ کلام ناشائستہ کلام۔
 بذرن من، بذو و مبذرة۔ والدہ۔
 اطاعت کرنا، حسن سلوک کرنا۔ خوش
 معاملگی سے پیش آنا۔ صفت بذو
 ج۔ ابزار و بذو ج۔ بذو
 بذو من، بذو و بذو و بذو و بذو
 فی قولہ۔ بیج بولنا۔ خالیقہ۔
 اپنے خالق کی اطاعت کرنا۔ بذو
 الیمین۔ قسم کا سچا ہونا۔ بذو
 الصلوۃ۔ نماز کا قبول ہونا۔ بذو
 اللہ الصلوۃ۔ اللہ تعالیٰ کا ناز کو
 قبول فرمانا۔
 بذو۔ نیک اطوار بھڑانا۔ نیکی کی طرف
 منسوب کرنا۔ پاک کرنا۔
 بذو کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش
 آنا۔ مہربانی کا برتاؤ کرنا۔
 ابز۔ خشکی کا سفر کرنا۔ علیہ۔ کسی پر
 غالب ہونا۔ فائق ہونا۔ اللہ

حُبَّتَهُ۔ قبول کرنا۔ الیمین۔ قسم پوری کر دینا۔
تَبَرَّدَ۔ نیک و صالح ہونا۔ نیکی کے اظہار کا ارادہ کرنا۔ تَبَرَّدَہ۔ کسی کی اطاعت کرنا۔
تَبَارَّ۔ القوم۔ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا۔
رَبَّتْ۔ ساتھیوں سے کنارہ کشی کرنا اور یک سو ہونا۔
الْبَرّ۔ خدائے تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔
الْبَارّ۔ خشک زمین۔ ج۔ بُرُور۔ کہا جاتا ہے۔ جَلَسْتُ بَرّاً۔ میں گھر سے باہر بیٹھا۔ خَوَجَ بَرّاً۔ وہ صحرا و بیابان کی طرف نکلا۔ اُرِيدُ جَعّاً اَدِيرِيْدُ بَرّاً۔ میں پوشیدگی چاہتا ہوں اور وہ علانیہ کا خواہاں رہے کوئی قدیم محاورہ نہیں ہے۔
الْبَرّ۔ عطیہ، طاعت، صلاحیت، سچائی۔
الْبَرّ۔ گیسوں، اس کا واحد دُبْرّة، ہے۔
الْبَرّ والْبَارّ۔ نیک اطوار۔ بھلائی کرنے والا۔ بڑا نیک، سچا۔ ج۔
اَبْرَارٌ وَبَرَرّہ۔
الْبَرّیّ۔ خشکی میں رہنے والا۔ خلاف بَحْرِیّ۔ من التّبات۔ جنگلی نباتات۔ خلاف بُسْتانی۔ دباغ میں پیدا ہونے والی۔ من حیوان۔ وحشی جانور۔ خلاف اہلی دپالتو۔
الْبَرّیّۃ۔ صحرا، بیابان۔ ج۔ تَبَارِیّ۔
اَلْبَرّانیّ۔ ظاہر۔ بیرونی۔ کہا جاتا ہے۔
”مَنْ اَصْلَحَ جَوَانِیْہُ اَصْلَحَ اللّٰہُ بَرَّانِیْہُ“۔ یعنی جو اپنے باطن کو صالح بنائے گا اللہ اس کے ظاہر کو درست اور ٹھیک کر دے گا۔
اَلْبَرّیّۃ۔ جنگل، بیابان۔ ج۔ اَبْرَارِیّۃ۔

اَبْرّ۔ اسم تفضیل (زیادہ نیک، زیادہ فیاض) زیادہ دور، صحرائیں رہنے والا، عرب کے اس قول ”اَصْلَحُ الْعَرَبِ اَبْرَهُمْ“ کے معنی یہ ہیں کہ عرب کا فیض تر و ہی بدوی ہے جو شہر سے دور رہتا ہے۔
الْبَرّیّ۔ ابھی بات۔
الْمَدْرَۃ۔ نیکی کا موجب، بخشش، فیاضی۔ ج۔ مَبَارَۃ وَتَبَارَات
الْمَبْرُور۔ من الافعال۔ وہ فعل جو شہ، جھوٹ اور خیانت سے پاک ہو۔
الْبَرّیر۔ درخت پلو کا پہلا پھل۔ واحد بَرّیرۃ۔
بَرّیّ (رف، بَرّیّ و بُرُوعاً۔ عدم سے وجود میں لانا۔ جامہ خفقت پہنانا۔
بَرّیّ (رس، بُرُوعاً و بَرّیّ و بَرّیّۃ۔
— من العیب والدّین۔ عیب قرض سے نجات دہلا دینی پانا۔
بَرّیّ (رس، و بَرّیّ (رف، و بُرُوعاً، بَرّیّ و بُرُوعاً و بُرُوعاً۔ من المرص۔ بیماری سے شفا پانا۔
بَرّیّ (تَبْرِیّۃ۔ بری کرنا من التّھمۃ تہمت دور کرنا۔
اَبْرّ۔ المبرّیّ۔ بیمار کو شفا دینا۔
من الدّین۔ کسی کو قرض سے بری کرنا۔
الرجل۔ مہینہ کی پہلی رات میں داخل ہونا۔
بَارّ۔ شَرِیکہ، شریک سے جدا اختیار کر لینا۔
تَبَرّک۔ من الذّنْب۔ گناہ سے بیزار ہونا۔
تَبَارک۔ الزّوجان۔ خاوند بیوی کا ایک دوسرے سے جدا ہونا۔
اَسْتَبْرأ۔ قرض یا گناہ سے برأت چاہنا۔
الْبَرّیّ والْبَرّیّ۔ خالص، خالی، وہ جو گناہ اور اتہام سے پاک اور بری ہو

بَرّیّون و بَرّاء و بَرّاء و اَبْرّاء و اَبْرّیّاء۔ مؤنث بَرّیّۃ۔
وَبَرّیّۃ۔ ج۔ بَرّیّات و بَرّیّات و بَرّیّات۔
الْبَرّاء۔ مہینہ کی پہلی شب۔ اَبْنُ الْبَرّاء مہینہ کی آخری شب، کہا جاتا ہے۔
”اَنَا بَرّاءٌ مِنْ کَذَا“۔ میں اسی سے بری اور پاک ہوں۔ اس کا تشبیہ و جمع یا مؤنث نہیں آتا۔
الْمُورّۃ۔ شکاری کی جھونپڑی۔ ج۔ بَرّاء۔
الْبَرّۃ۔ بَرّیّ کا مصدر ہے۔ فرمان، اجازت، خلاصی۔ ج۔ بَرّاءات۔
الْبَارّی۔ خالق، پیدا کرنے والا۔ صحت یاب شخص جس میں نقابہیت ابھی باقی ہو۔
الْبَرّیّۃ۔ مخلوق۔ ج۔ بَرّیّات۔
الْبَرّیّۃ والْبَرّیّۃ۔ پرندہ کی گردن کے پر۔
بَرّال و تَبَرّال و اَبْرال۔ الطّائر۔ پرندہ کا لڑائی کے لیے گردن کے پر کھڑے کرنا۔
الْبَرّیّۃ۔ بَرّیّ، مٹی کی بنی ہوئی پختہ نالی۔ ج۔ بَرّیّۃ۔
بَرّیّ۔ بے فائدہ بکواس کرنا۔ بک بک کرنا غصہ میں چلانا۔ بکنا۔ صفت (بَرّیّ) تَبَرّیّ۔ وحشی ہونا۔
الْبَرّیّۃ۔ قوم بربر کا شخص۔
الْبَرّیّ۔ مغربی افریقہ کی ایک قوم ہے۔ مصر اور دیگر ممالک میں رنگیوں اور جشیوں پر بھی بربر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ج۔ بَرّیّ و بَرّیّۃ۔
الْمُبَرّیّ۔ شیر۔
بَرّیّۃ۔ طلب کرنا۔
تَبَرّیّ۔ کتے کی مانند چلنا۔
اَبْرّاس۔ گرا کھانا۔
بَرّیّ۔ الارض۔ زمین کو پانی دینا۔





الْبَرْقُ بَرْقٌ - برق بواجہ، سارنگی۔

بَدَتْ رَمْنٌ بَدَتْ - المَشَى کالٹا۔

بَيُوتٌ رَسٌ بَرْتًا - حیران ہونا۔

الْبُوتُ وَالْبُوتُ شُكْرٌ، چینی، کھانڈ۔

الْبُوتُ وَالْبُوتُ - ماہر راہبر۔ ج۔

أَبْرَاتٌ -

الْمُبْرَتَانِ نازِگی، نازِگی کا درخت۔

بَرْتُكَ بَرْتُكَ - الثوب - بھاڑنا، لکڑے

لکڑے کرنا۔ الشیء - چینی کی مانند

کالٹا۔

الْبَرَاتُ - چھوٹے ٹیلے (جمع ہے) بغیر

واحد۔

بَرْتٌ رَسٌ بَرْتًا خوش حالی کی زندگی بسر کرنا

الْبُوتُ - نرم و ہموار زمین۔ ج۔ بَرَاتٌ

أَبْرَاتٌ، بُرُوتٌ -

الْمُبْرَتَانِ - مِنَ السَّيَاحِ وَالطَّيْرِ - پنجہ

چنگل۔ ج۔ بَرَاتَانِ -

الْمُبْرَتَانِ - شُرکت و قوت

بَرَجٌ رَسٌ بَرَجًا - کھانے پینے میں فراخ

حال ہونا۔ رَزَقٌ میں کشائش والا ہونا

بَرَجَتْ - عَيْدُهُ، کسی کا سیاہ اور فراخ

آنکھوں والا ہونا۔ حَسَنٌ آنکھوں والا

ہونا۔ صفت (أَبْرَج) آنکھ۔

(بَرَجَاء) ج۔ بَرَج -

بَرَجٌ - الشیء - ظاہر ہونا۔ بلند ہونا۔

بَرَجٌ وَأَبْرَجٌ - برج بنانا۔ مینا بنانا۔

تَبَرَجَتِ الْمَرْأَةُ - عورت کا اجنبیوں کو

کو اپنی زینت اور اپنے محاسن دکھانا۔

الْبَرْجُ - توبصورت - ظاہر، معلوم۔ ج۔

أَبْرَج -

الْبَرْجُ - ستون، قلعہ، محل، مینار۔ گنبد۔

ج۔ بَرَجٌ وَأَبْرَجٌ وَأَبْرَجٌ -

الْبَرْجُ - آسمانی بارہ برجوں میں سے ایک

بَرَجٌ - وہ بارہ برج یہ ہیں:- حمل،

ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ،

میزان، عقرب، قوس - جدی، دلو،

حوت۔

الْبَارِجُ - ماہر ملاح۔

الْبَارِجَةُ - بڑی جنگی کشتی۔ ج۔ بَوَارِجُ -

کھاتا ہے۔ مَا فَلَانٌ إِلَّا بَارِجَةٌ -

قَدْ جُمِعَ فَيَكُلُّ الشَّيْءَ - یعنی فلاں

شخص شریک ہے۔ سَفِينَتُهُ بَارِجَةٌ -

کھلی کشتی۔

تَبَارِجٌ - النَبَاتُ - نباتات کے پھول۔

الْبَرِجُ - دودھ بونے کا آلہ۔

الْبُوجُلُ - دھاری دار اونی چادر۔

الْبُوجُلُ - مشتری ستارہ۔

لَبْرَجَةٌ - انگلیوں کے جوڑ یا ناٹھ اور

پاؤں میں چھوٹی ہڈیاں۔

الْبَرَجُ - قبیلہ تیم کی ایک شاخ۔ عرب

میں ضرب النسل ہے۔ "إِنَّ الشَّيْءَ

وَإِنْ أَلْبَرَجَهُ" - یہ مثل اس شخص

کے لیے بولی جاتی ہے جو خود کو لالچ کے

باعث ہلاکت کی نذر کر دے۔ اس

کی اصل یوں ہے کہ سوید بن ربیع نے

عمر بن ہند کے بھائی کو قتل کر دیا۔

تو عمر نے قسم کھائی کہ وہ بنو تیم کے

سوا آدمیوں کو مار کر نذر آتش کرے گا

چنانچہ بنو دارم (بنو تیم کی ایک شاخ)

کے ننانوے آدمیوں کو مار کر اس نے

ان کو آگ میں ڈالا۔ قضا کا مارا براجم

کا ایک آدمی گوشت کی بو پا کر اور

تقریب و لیمہ کا شہ کر کے دہل آ

موجود ہوا۔ عمر نے اس کو بھی موت

کے گھاٹ اتار کر اپنی قسم پوری کی۔

اور وہ شخص لالچ کے باعث لقمہ

اجل بنا۔

بَرَجٌ رَسٌ، بَرَجًا - المکان

ومنہ - کسی جگہ کا چھوڑنا کسی مکان

سے ہٹنا۔ اور جدا ہونا۔ زائل ہونا۔ کہا

جاتا ہے۔ مَا بَرَجَ وَلَا بَرَحَتْ

عَيْنَا - وہ اور تو غنی رہا۔ بَرَجَ

الْخِفَاءُ - ظاہر ہونا۔

بَرَجَ رَسٌ، بَرَجًا - الرجل - غصہ ہونا۔

ناراض ہونا۔ بُرُوجًا - الصَّيْدُ -

شکار کا دائیں جانب سے گذر جانا۔

صفت (بَارِجٌ وَبُرُوجٌ وَبَرِجٌ)

بَرَجَ - بِلَا الْأَمْرِ - تھکانا، سخت دکھ اور

تکلیف دینا۔ اللَّهُ عَذَابُكَ - اللہ تیری

تکلیف کو دور کرے۔

أَبْرَحَهُ كَسَى كَوَجَّهَ سے ہٹانا۔ تعجب کرنا عزت

کرنا۔ تعظیم کرنا۔

بَارَجَ - المکان - جگہ سے ہٹانا۔

الْبَرَجُ - ج۔ أَبْرَاحَ - وَالدَّيْبَرِجُ وَ

الْبُرْجَا سَخِي، تکلیف، برائی۔

الْبَرَجُ - دہشت انگیز معاملہ۔ اَمْرٌ (بَرَجٌ)

تکلیف دہ معاملہ۔

الْبَرَامُ - کشادہ زمین جس میں نہ روئیدگی

ہو۔ نہ کوئی عمارت، کہا جاتا ہے۔ "لَا

بَرَامَ" کوئی چارہ کار نہیں۔ وَجَاءَنَا

الْأَمْرُ بَرَامًا - یعنی معاملہ ہم تک

واضح طور پر پہنچا۔ وَجَاءَ بِالْكَفْوِ

بَرَامًا - یعنی اس نے کفر کا اظہار صاف

اور کھلے طریقہ سے کیا۔

بَرَامَ - بَرَزَن قَطَام - سورج۔

الْبَارِجُ وَالْبَارِجَةُ - شب گذشتہ۔

الْبَارِجَةُ الْأُولَى - گذشتہ رات سے

پہلی رات کہا جاتا ہے۔ هَذِهِ

فَعَلَهُ بَارِجَةً - یہ فعل غلط اور

غیر ارادی ہے۔

بَرَسَ - تیر کے خطا کرنے پر یہ لفظ استعمال

ہوتا ہے، بمعنی ارے۔ مَرَحَى اس

کے خلاف ہے جو تیر کے نشان پر لگنے

کے وقت کلہوٹھین کا کام دیتا ہے بمعنی

واہ، کیا خوب۔

البوارد - گرم ہوا - ج - بوارد -
رَبَّنْ يَدِيح - کوا -

التباريح - مصائب زندگی، کہا جاتا ہے
"تباريح الشوق" سوزِ شب ہائے
عشق -

بَرْدَن، بَرْدَاو بَرْدَرَن، بَرْدَدَع -
ٹھنڈا ہونا، صفت (بَرْدَو بَارِدُو
بَرْدُوو بَرَادُو - بَرْدَت الارض
زمین پر ازلے کرنا - بَرْد - القوم
لوگوں کو سردی لگنا، یا ان پر ازلے
پڑنا -

بَرْد - الحق علیہ اولہ، حق ثابت
ہونا - بَرْدَقْلَان - سوجانا، سست
پڑ جانا، کہا جاتا ہے "جَدَّ فِي
الْمَرْثَةِ بَرْد" جب کوئی کسی
معاملہ میں گرم جوشی سے کام لے کر پھر
سرد پڑ جائے -

بَرْدَن، بَرْدَا - الْحَدِيد - لوہے کو
ریتی سے رگڑنا - الْحَبِيْز - روٹی پر
پانی ڈالنا - الْعَيْن - آنکھ میں ٹھنڈا
نمرہ لگانا -

بَرْدَن، بَرْدَاو بَرْدَدَع - ٹھنڈا کرنا -
- الْوَجَع - تکلیف کو خفیف کرنا اور
سکون دینا - الحق - حق کو ثابت
اور واجب کرنا -

بَرْدَنَا الْكَيْلَ وَبَرْدَا عَيْنَنَا - ہم کورات
کی سردی لگی -

أَبْرَدَ - موسم سرما میں یا اولوں میں داخل
ہونا - ابیہ البرید - کسی کی طرف
قاصد یا پہلی بھیجنا - الشیخ - ٹھنڈا
کرنا -

أَبْرَدَ - المَرَضُ - مرض کا کسی کو کمزور
کر دینا -

تَبْرَدَ - ٹھنڈک پانا، کہا جاتا ہے "نَزَلَ
مِنَ الْمَاءِ يَتَبَرَّدُ" وہ ٹھنڈک کی

خاطر پانی میں اُترا -

تَبَارَدَ - سردی ظاہر کرنا، بستی سے کام کرنا -

اِبْتَرَدَ - ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا -

اِسْتَبْرَدَ - کسی کو ٹھنڈا پانا - اِسْتَبْرَدَ
عليه لسانه، اس نے اس پر
زبان درازی کی -

الْبُرْدُ - سردی، نیند -

الْبُرْدَانِ وَالْاَبْرَدَانِ - صبح و شام -

الْبُرْدُ - ازلے -

الْبُرْدَةُ - واحد ابْرَد - ایک اولہ،
بہمنی -

الْبُرْدُ - وہ سرمہ جس سے آنکھ کو ٹھنڈک
پہنچے - ثوبُ بُرْد - وہ کپڑا جس کی
درزا بھری ہوئی ہو، روئیں دار کپڑا -

الْبُرْد - دھاری دار کپڑا - ج - بُرْدُوو

أَبْرَادُو بَرْد - کہا جاتا ہے دَفْعَ

بَيْنَهُمَا قَدْ بُرُوْدِيْمَانِيَّةً -

یعنی وہ آپس میں ایسے سخت جھگڑے

کہ قیمتی کپڑے تک پھٹ گئے، گویا ان

میں زبردست جھگڑا رونما ہوا - کالا

مکمل - واحد بُرْدَة - ج - بُرْد -

الْبُرْدِي - نرکل کی طرح ایک پودا، جس

کے پھل کو قدیم مصری لکھنے کے کام میں

لیتے تھے -

الْبُرْدِي - مجھور کی ایک عمدہ قسم -

الْبُرَادَة - لوہے وغیرہ کا ریتا ہوا برادہ -

الْبُرْدَاء - سردی کا بخار -

الْبُرَادَة - پانی ٹھنڈا کرنے کا برتن -

الْبُرَيْد - قاصد، پہلی - ج - بُرْد - تقریباً

بارہ میل کی مسافت - ڈاک خانہ -

اَبَارِدُ - اسم فاعل - عَاشِشٌ بَارِدُ -

خوشگوار زندگی - عَظِيْمَةٌ بَارِدَةٌ -

وہ مال غنیمت جو بغیر لڑائی بھڑائی اور

محنت کے مل جائے - حُجَّةٌ بَارِدَةٌ -

کمزور اور چھٹی دلیل - الْمُرْهَفَاتُ

الْبَوَارِد - کاٹنے والی تلواریں -

الْأَبْرَدُ - چیتا - ج - أَبَارِد - مونٹ

أَبْرَدَة -

الْمَبْرَد - ریتی -

الْمَبْرَدَة - ٹھنڈپیدا کرنے والی چیز، کہا

جاتا ہے "هَذِهِ مَبْرَدَةٌ لِّلْبَدَنِ"

یہ بدن کو ٹھنڈ پہنچانے والی ہے -

لَبْرَدَة وَالْبَرْدَعَة - جانور کی پیٹھ

پر ڈالا جانے والا کپڑا، عرق گیر -

اِبْرَدُون - ٹٹو - ترک کھوڑا - مونٹ

بَرْدُونَة - ج - بَرَادِيْن -

بَرْدَن - الفرس - ترک کھوڑے کی چال

چلنا، ٹٹو کی طرح چلنا - الرجل کسی

کو مغلوب کرنا -

بَرْدَن، بُرْدَا میدان کی طرف نکلا -

بَرْدَن، وَبَرْدَس، بَرْدَا - گنما میو

پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا - صفت

رہا رن

بَرْدَن، بَرَادَة - فنیلت و شجاعت

میں اپنے ساتھیوں سے فوقیت لے جانا

صفت (بَرْدَن) مونٹ (بَرْدَن)

أَبْرَدَة - نکالنا - (الکتاب کتاب شائع

کرنا - الرجل کسی کا ارادہ سفر کرنا -

بَرْدَش - پاخانہ کرنا - الشیخ چیز کا نکالنا -

ظاہر کرنا - الفرس گھوڑے کا گھوڑ

دوڑ کے میدان میں آگے نکل جانا -

الرجل فی العلم کسی کا علم میں اپنے

بھروسے سے سبقت لے جانا -

بَارِدٌ مَبَارَدَةٌ وَبَارَادَا - مقابلہ پر نکل

کہ لڑنا -

تَبَرَّدَ - قضائے حاجت کے لیے میدان

کی طرف جانا -

اِسْتَبْرَدَ - نکالنا -

الْبَرَا - بَارَد کا مصدر آدمی کا پاخانہ

الْبَرَا - درختوں سے خالی کھلا ہوا وسیع



میدان کناہیہ از قضاے حاجت۔
المبرش والبرش۔ قضاے حاجت
کی جگہ۔

نبرش۔ دہریوں کے درمیان کی روک۔
اورش۔ دنیا اور آخرت کے درمیان
موت سے قیامت تک کا وقت۔ جہ
نبرش۔ نبرش۔ ایمان، ایمان
کی ابتداء و انتہاء کے درمیان کی حالت
یا شک و یقین کی درمیانی حالت۔
تبرش۔ القوم۔ لوگوں کا بغیر گھوڑوں،
اور اونٹوں کے جمع ہونا۔

تبرش۔ القوم۔ بغیر اونٹوں اور گھوڑوں
کے جمع ہونا۔
البرش۔ لوگوں کے گروہ۔ شاہراہ کے
ارد گرد کے راستے۔ واحد برش۔
دعوت،

برش۔ برش۔ مقروض پر سختی کرنا۔
برش۔ الارض۔ زمین کو نرم بنانا۔
البرش والبرش۔ روٹی
البرش۔ ایک قسم کی کھجور۔
برش۔ کسی کو برسام کی بیماری میں
بتلا کرنا۔

البرش۔ ذات الجنب کی بیماری۔
برش۔ برسام کی بیماری میں بتلا ہونا۔
صفت و مبرش۔
برش۔ برش والبرش۔ سفید
داغوں والا ہونا۔ صفت دابرش۔
و مبرش۔ مکان ابرش۔ وہ
جگہ جہاں گونا گوں نباتات بکثرت
ہوں۔ سترہ برش۔ وہ سال
جس میں گھاس کی پیداوار بہتات
سے ہو۔

البرش والبرش۔ سفید داغ۔
البرش۔ سفید داغوں والا۔
نبرش۔ اللحمہ۔ کاٹنا۔

البرش والبرش۔ بد خلق۔
برش۔ اللحمہ۔ کاٹنا۔ کڑے کڑے
کرنا۔ فلاں یا السوط۔ کڑے سے
مارنا۔

البرش۔ شادماں ہونا۔ صفت (مبرش)
الشجر۔ کلی ٹکنا۔ النور۔ کھانا۔
برش۔ الجزور۔ کڑے کڑے کرنا۔
برش۔ برش۔ و برش۔ الرجل
خاموش رہ کر غم کا اظہار کرنا۔ الیہ
کسی کو گھور کر دیکھنا۔

البرش۔ برقع۔
البرش۔ تیز نظر والا۔
برش۔ الیہ۔ غم کو گوند سے چپکانا
البرش۔ گوند لئی۔

برش۔ برص۔ برص کی بیماری میں
بتلا ہونا۔ صفت دابرش۔ مؤث
برش۔ جہ۔ برش۔ أرض
برش۔ مختلف جگہوں سے چری ہوئی
زمین۔ حیثہ برش۔ کوڑ یا لا
سانپ، سفید و ہوں والا سانپ۔

ابرش۔ کسی کو برص کی بیماری میں بتلا کرنا
تبرش۔ الارض۔ کسی زمین کی گھاس
پوری کی پوری چر جانا۔

البرش۔ ایک جلدی بیماری جس کی وجہ
سے جلد سفید ہو جاتی ہے اور ایک
تکلیف دہ خارش پیدا ہو جاتی ہے۔
سَام ابرش۔ چھپکلی، تشنہ کی صورت میں
ہذا ان سَام ابرش۔ اور جمع کی
حالت میں ہوا۔ سَام ابرش و
آبارش کہتے ہیں۔

ابو برش۔ چھپکلی۔
البرش۔ کڑے کڑے کا وہ ٹکڑا جس سے
شیشی بوتل وغیرہ کے سر کو باندھیں۔
البرش۔ چاند۔

برش۔ برص۔ الماء من العین۔

چشمہ سے تھوڑا پانی پھوٹنا۔ العین
برص۔ چشمہ کا تھوڑا پانی دینا۔
برش۔ دن، برص۔ الذبابة۔ نباتات
کا پھوٹنا۔ پہلی روئیدگی کا ظاہر ہونا۔
برش و ابرش۔ مکان۔ کسی جگہ کا بہت
روئیدگی والا ہونا۔

تبرش۔ تھوڑی چیز پر زندگی گزارنا۔
الشیء۔ کسی شے کو تھوڑا تھوڑا لینا۔
الماء۔ پانی چوسنا۔ الارض۔
زمین کا روئیدگی والا ہونا۔

البرش۔ تھوڑا۔ جہ۔ برش و برش
و ابرش، کہا جاتا ہے۔ هذا ابرش
من عذی۔ یہ بہت میں سے تھوڑا
البرش۔ بخیرین۔ نباتات نہ اگاتے
والی زمین۔

البرش۔ اکھوا۔
البرش والبرش۔ تھوڑا۔
البرش۔ کثرت بخشش کی وجہ سے
تنگ دست۔

البرش والبرش۔ بائع اور
خریدار کے درمیان دلال۔ المبرش
کرایہ پر گھوڑوں اور گدھوں کو چلانے
والا۔

البرش۔ پتھر کی چوٹ، اس کی فصیح
عنی الاسکفة ہے۔
برش۔ برش۔ کسی کو برطیل
درشت دینا۔

البرش۔ ٹوپی۔
البرش۔ لبا پتھر رشوت۔ جہ۔
برش۔

برش۔ الیل۔ رات کا تاریک ہونا۔
الرجل۔ کسی کا غصہ کے سبب ہونٹ
لٹکانا۔ و تبرش۔ غصہ سے بھولنا۔
البرش والبرش۔ موٹے ہونٹ والا۔
برش۔ و برش۔ و برش۔



بَرَاعَةٌ وَبُرُوعٌ - علم یا فضیلت یا
جمال میں یکتا ہونا۔ صفت (بارع)
بَرَعَهُ - علم یا فضیلت یا جمال میں کسی
پر غالب آنا۔ بَرَعَ الْجَبَلُ - پہاڑ پر
چڑھنا۔

تَبَرَّعَ بِالْعَطَاءِ - صدقہ و خیرات دینا۔
ایسی بخشش کرنا جو نہ واجب ہو اور
نہ اس سے کوئی عوض مطلوب ہو۔
کہا جاتا ہے: فَعَلَهُ تَبَرُّعًا وَ
مُتَبَرِّعًا - یعنی اس نے اس کو بطور
نفل کیا۔

الْبُرُوعِ - جمال و عقل میں یکتا۔ بَرُّقُ
بُرُوعٍ - دور سے چمکنے والی بجلی۔
الْبُرُوعُث - حلقہ دُور۔
الْبُرُوعِيس وَالْبُرُوعِيس - بہت دودھ
دینے والی اونٹنی۔

الْبُرُوعِيس - سختیوں پر صبر کرنے والا۔
تَبَرَّعَ - الرجل - کسی کے نیچے تملانا۔
تَبَرَّعَتِ الْحَيَّةُ - کندلی مارنا۔
الْبُرُوعِل - بچو کا بچہ۔

بَرَّعَ بَرَّعَةً وَتَبَرَّعَ - الشَّجَرُ
درخت کا غنچہ کھلانا۔

الْبُرُوعُ وَالْبُرُوعَةُ - جہ - بَرَّاعُهُ
وَالْبُرُوعُوم وَالْبُرُوعُومَةُ - جہ
بَرَّاعِيهِم - غنچہ ناشگفتہ۔ پھل
کا غلاف۔

بَرَّعَ دَسَ، بَرَّعًا - ناز و نعمت سے زندگی
بسر کرنا۔

الْبُرَّع - لعاب۔
بَرَّعَتْ - السَّكَا - کسی جگہ کا بہت
پسوؤں والی ہونا۔

الْبُرُوعُوث - پسو۔ جہ - بَرَّاعِيْثُ -
بُرَّعُوثُ الْبَحْرِ - جھینگا مچھل۔
الْبُرُوعُودُ الْبُرُوعُودُ وَالْبُرُوعُودُ الْبُرُوعُودُ
یا نیل گائے کا بچہ۔ جہ - بَرَّاعِزُ وَ

وَبَرَّاعِيْزُ -

الْبُرَّعُش - چمچر واحد بُرَّعَشَةٌ -
الْبُرَّعُشِ وَالْبُرَّعُشِ - پیچ والی میخ۔
الْبُرَّعُشِ - ارغوانی رنگ یا اسی رنگ
میں رنگا ہوا کپڑا۔

بَرَّقَ دَن، بَرَّقًا وَبُرُوقًا وَبَرَّقَانًا وَ
بَرِّقًا - الْبَرَّقُ - بجلی کا ظاہر ہونا
- الشَّيْءُ - چمکنا۔ جگمگانا۔ السَّمَاءُ
آسمان سے بجلی چمکنا۔ الرجلُ -
کسی کو دھکی دینا۔

بَرَّقَتْ دَن، بَرَّقًا وَبَرَّقَتْ وَابَرَّقَتْ -
السَّكَاةُ - عورت کا بنا، سنورنا۔
آراستہ و مزین ہونا۔

بَرَّقَ (رَسَ) بَرَّقًا - حیران ہونا۔ اور
چندھیا جانا۔

بَرَّقَهُ - آراستہ کرنا۔ بَرَّقَ عَيْنَهُ وَ
بَعَيْنَهُ - آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا۔
أَبْرَقَ - برق زیادہ ہونا۔ دھمکانا۔ لباس فر
کرنا۔ لَسْفِيْفَه - تلوار چمکانا۔ عَن
وجہہ - منہ کھولنا۔ أَبْرَقَتِ السَّمَاءُ
آسمان کا بجلی چمکانا۔

الْبَرَّقُ - بجلی۔ جہ - بُرُوقُ - کہا جاتا ہے
”بَرَّقُ الْخَلْبُ وَبَرَّقُ الْخَلْبُ وَ
بَرَّقُ الْخَلْبُ - بے بارش کی بجلی۔
پانی نہ برسانے والی بجلی۔

الْبَارِقَةُ - بجلی والا بادل۔ تلواریں۔
سَحَابَةٌ بَرَّاقَةٌ - بجلی والی بدلی۔
الْبَرِّقَةُ - دہشت۔ خوف۔

الْبَرَّقُ - خوف۔ دہشت۔ بھیڑ کا بچہ۔
جہ - أَبْرَاقُ وَبُرْقَانُ - رَجُلٌ
بُرُوقٌ - بڑول آدمی۔

الْبُرُقُ - گوہ۔

الْبُرُقَةُ - جہ - بُرُقُ وَدَالْبُرُقُ
جہ - أَبَارِقُ - پتھر، ریت مٹی ملی
ہوئی سخت زمین (اس کی تصغیر أَبْرِيقُ)

ہے۔ الْاَبْرَقُ - سیاہ و سفید رنگ
والا۔

الْبُرَّاقُ - وہ چار پایہ جس پر حضرت محمد صلی
شب معراج کو سوار ہوئے تھے۔ اس کا
قد گدھے سے بڑا اور نچر سے چھوٹا تھا۔
التَّبَارِيقُ - تھوڑا یا تیل یا گھی جو کھانے
میں ڈالا جائے۔

مَبْرُوقٌ - الصُّبْحُ - صبح طلوع ہونے
کی جگہ۔ جہ - مَبَارِقُ وَمَبَارِيقُ -
بَرَّقَ بَرَّقَةً وَتَبَرَّقَ - وَجْهُهُ
بدشکل ہونا۔ الثوبُ - کپڑے کا
آلودہ ہونا۔

بَرَّقَتْ دَبْرَقَتْ - گونا گوں رنگوں سے
آراستہ کرنا۔ فی الکلام - بے سرو پا
باتیں کرنا۔

الْبُرُقِشُ - ایک دل پسند آواز، اور رنگین
پروں والا پرندہ۔

أَبْرَقَ قِشَ - ایک چھوٹا سا پرندہ جس کے
پر اوپر سے خاکی، نیچے سے سرخ اور
نیچے سے سیاہ ہوتے ہیں جب پر کھولتا
ہے۔ رنگ برنگ الوان دکھائی دیتے ہیں
اس کا اطلاق مجازاً متلون المزاج شخص
پر بھی ہوتا ہے۔

الْبَرَّقُوشُ - پرانا جوتا۔
بَرَّقَطَا - چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنا۔
پیچھے جھانکتے ہوئے واپس جانا۔
الکلام سے ربط و بے ترتیب
کلام کرنا۔

بَرَّقَعَهَا - برق پھنانا۔
الْبُرَّقَع - جہ - بَرَّقَعُ عورت کا روپوش۔
تَبَرَّقَعَتْ - برق پھنانا۔
بَرَّقَل - جھوڑ بولنا۔

الْبُرُقْلَةُ - عل سے خالی بات۔
الْبُرُقِيلُ - ایک جھگی ہتھیار، جس کے
ذریعہ گولی اور پتھر وغیرہ پھینکا کرتے





تھے۔
 اَلْبُرْقُوقُ - جنگلی آلو بخارا - زرد آلو۔
 بَرَك (ن) بُرُوکَا وَتَبَرَاکَا دَبَرَاکَا وَ
 اُسْتَبْرَاکَا - البعیر - اونٹ کا بیٹھنا
 بَرَاک بِالْمَكَانِ - کسی جگہ اقامت
 پذیر ہونا۔ بَرَاک فِیْہ - کسی کے لیے
 دے لے برکت کرنا۔ بَارَاک الرَّجُلُ
 کسی آدمی کے حق میں برکت کی دعا
 مانگنا۔ راضی ہونا۔
 بَارَاکَ اللّٰہُ لَکَ وَفِیْکَ وَعَلِیْکَ وَ
 بَارَاکَکَ - اللہ تجھ کو مبارک کرے۔
 کہتے ہیں: بَارَاکَ عَلَی الْاَنْبِیَاءِ وَ
 السَّالِحِیْنَ یعنی اے اللہ تعالیٰ تو
 نے انبیاء اور ان کی اولاد کو جو شرافت
 و بزرگی اور عزت بخشی ہے، وہ ہمیشہ
 برقرار رکھ۔ بُورَاکَ فِیْکَ - یہ
 دعا نہیں، بلکہ اس سے اس سائل
 کو خطاب کیا جاتا ہے جس کو دفع کرنا
 مقصود ہو۔
 اَبَرَاکَ - اونٹ کو بٹھانا۔
 تَبَرَاکَ - بلہ - کسی سے برکت حاصل کرنا۔
 تَبَارَاکَ - بلہ - نیک فال لینا۔ کسی سے
 نیک شگون لینا۔ اللّٰہُ ذَاتِ الْخُدَاوَنِی
 کا مقدس ہونا۔
 اِبْتَرَاکَ - القوم - لوگوں کا گھٹنوں کے
 بل بیٹھ کر جنگ کرنا۔ اِبْتَرَاکُوْا فِی
 الْعُدُوِّ - تیز دوڑنے کی کوشش کرنا۔
 - فَلَانًا - کسی کو پچھا کر اپنے سینہ
 کے نیچے لانا۔ فِی عِرْضِہِ وَ عَلِیْہِ -
 کسی کو گالی دے کر اس کی امانت کرنا۔
 اور آبروریزی کرنا۔
 اِسْتَبْرَاکَ - برکت کی فال لینا۔
 اَلْبُرُوکُ - سینہ، اونٹوں کا گلہ۔ واحد
 (بَارَاک) مؤنث (بَارَاکَ) - ج۔
 بُرُوک -

اَلْبُرَاکَ - بڑھاؤ، زیادتی، نیک بختی۔
 اَلْبُرَاکَ - اونٹ کے بیٹھنے کی ہیئت، پانی
 جمع ہونے کی جگہ۔ حوض۔ ج۔ بَرَاکَ -
 دودھ دینے والی بکری - ج۔
 بُرَاکَات -
 اَلْبُرَاکَ - ایک چھوٹا سا سفید آبی پرندہ۔
 پیسنے والے کی اجرت اور مزدوری۔
 ج۔ بَرَاکَ وَ اَبَرَاکَ وَ بُرَاکَانَ -
 اَلْبُرَاکَ - اونٹ۔ برکت والا۔
 اَلْبَارُوکُ - بزدل ہست۔ کا بوس۔
 اَلْبَرَاک - پسائی لینے والا۔ پیسنے والا۔
 اَلْمَبْرَاک - اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ کہتے
 ہیں: "لَیْسَ لِفُلَانٍ مَبْرَاکٌ جَمَلٌ"
 یعنی فلان کے پاس کچھ بھی نہیں۔
 اَلْبُرُوکَ - مادہ سیبی۔
 اَلْبُرَاکَارِ وَ اَلْبُرَاکَارِ - پرکار۔
 اَلْبُرَاکَانَ - کوہ آتش فشاں۔
 بُرَاکَعَا - کاٹنا۔ پچھاڑنا۔ بُرَاکَعَا الْفَرَسُ
 گھوڑے کا چاروں پیروں پر کھڑا ہونا۔
 اور گھٹنوں کے بل گر پڑنا۔
 بُرَاکَعَا وَ تَبَرَاکَعَا - الرجل - برین کے
 بل کرنا۔
 اَلْبُرَاکَعَا - پست قدمی۔
 جُوعٌ بُرَاکُوعٌ - سخت بھوک۔
 بَرَم (ن) بَرَمَا دَبَرَم - اَلْحَبَلُ - دو
 لڑیاں کر کے رسی بٹنا صفت مفعولی
 دَمَبَرُومَ دَبَرُیْمَ - الامر - کام
 کو پختہ اور مضبوط کرنا۔
 بَرَمَ دَسَ بَرَمًا - تنگ دل ہونا۔ بے
 قرار ہونا۔ بِحُجَّتِہِ - دلیل نہ
 سوچنا۔
 اَبَرَمَ - اَلْحَبَلُ وَ الْاَمَرُ - بمعنی بَرَم
 اَلْحَبَلُ - ۱۔ کسی کو ملول و پریشان
 کرنا۔ زچ کرنا۔ علیہ فی الجَدَالِ -
 کسی کو لا جواب کرنے کے لیے بحث

کیے جانا۔
 اِنْبَرَمَ - اَلْحَبَلُ - رسی کا بٹ جانا۔
 تَبَرَمَ - زچ ہونا۔
 اَلْبَرَم - درخت عضاۃ کا پھل، بخیل، لئیم۔
 ج۔ اَبَرَام -
 اَلْبُرُمَا - پتھر کی ٹانڈی - ج۔ بَرَمَ وَ بَرَامَ
 اَلْبُرَم - بد اخلاق لوگ۔
 اَلْبُرَام - چیچڑی - ج۔ اَبَرُمَا -
 اَلْبُرَام - بٹنے والا۔
 اَلْبُرُیْمَ وَ اَلْبُرَام - دھاگا۔ ڈورا۔ ہر
 بٹی ہوئی شے۔ بٹی ہوئی رسی۔ اَلْبُرُیْمَ
 لشکر۔
 اَلْبُرُیْمَا - سوراخ کرنے کا اوزار۔ ہرما۔
 اَلْمَبْرَم - تکلہ - ج۔ مَبَرَام -
 اَلْمَبْرَم - مفع۔ قَضَاءٌ مَبْرَمٌ - اٹل
 حکم یا فیصلہ۔
 اَلْبُرُمِیْلَ - پیپہ - ج۔ بَرَامِیْلَ -
 اَلْبُرَامَا - میزانیہ، بجٹ - جدید
 بُرَاکَسَ قَتَبَرَاکَسَ - کسی کو بُرُس پہنانا
 اور پھر کسی کا بُرُس پہن لینا۔
 اَلْبُرَاکَسَ - ودلی ٹوپی جو آغاز اسلام
 میں پہنی جاتی تھی۔ ہر وہ لباس جس
 کے ایک حصہ سے سر ڈھک لیا جائے
 اَلْبُرَاکَسَ - ٹوپی، ہیٹ۔
 اَلْبُرَاکَسَ - مٹی کا برتن - ج۔ بَرَاکَسَ -
 بَرَاکَسَ دَسَ - بَرَاکَسَ - بیماری کے بعد جسم کا
 بحالت تندرستی آنا۔ صفت (اَبَرَاکَسَ)
 مؤنث بَرَاکَسَ - ج۔ بُرَاکَسَ -
 اَبَرَاکَسَ - دلیل لانا۔
 اَلْبُرَاکَسَ وَ اَلْبُرَاکَسَ - عرصہ، زمانہ کا
 کچھ حصہ - ج۔ بُرَاکَسَ وَ بُرَاکَسَات -
 اَلْبُرَاکَسَ - ہندوؤں کی ایک ذات۔
 مفرد (برہمن)
 بَرَاکَسَ - الشَّیْءُ وَ عَلِیْہِ وَ عِنْدَہُ کسی
 چیز پر دلیل قائم کر کے اس کو واضح کرنا

تَبَرُّهَنْ دہل سے ثابت ہونا۔

اَبْرَهَان - دلیل، حجت، جہ بڑا ہیں

اَلْبُرْزَان فریم چوکھا - فصیح عربی میں

اس کے لیے لفظ کفایت اور

اطار ہے

اَلْبُرْوَاق والْبُرُوق - ایک قسم کی بوٹی

جو محض بادل سے سرسبز اور ہری ہو

جاتی ہے چنانچہ مثل ہے "اَشْكُرُ

مِنْ بَرُوْقَةٍ" کہ وہ بروقت سے

بھی زیادہ شکر گزار ہے کہ تھوڑے

بھی پر شکر و صابر رہتا ہے

بَرَادَن، بَرْدَا وَاَبْرِي اَبْرَاء -

الناقۃ افشنی کے ناک میں چھلایا

علقہ ڈالتا۔

اَلْبُرَّة کوئی علقہ دار چیز، مثلاً کلنگن، ہلی

یا پاریزید وغیرہ۔ ج۔ بُرّی و

بُرَات و بُرین و برین - کسا

جاتا ہے "اَعْدَانُهُ الدُّنْيَا بُوْتَهَا"

یعنی اس نے دنیا بہت پائی۔

بَدِی دھن، بَرِّیَا وَاَبْرٰی - السہل

وَالْقَلَم - تیرا قلم کو تراشنا، صفت

مفعول دبرئی و مبرئی، الشخص

دہل کرنا۔ کمزور کرنا۔

بَارِی - الرجل کسی سے آگے بڑھنے

کی کوشش کرنا۔ اَمْرَانہ - اپنی

عورت سے فراق پر صلح کرنا۔

اَبْرٰی - مٹی لگنا۔

تَبَارِیَا - آگے بڑھنے میں باہم مقابلہ کرنا۔

تَبْرٰی - لمعہ و فہ - بھلائی کے

دبے ہونا۔

اَنْبَرٰی - لہ - پیش آنا۔

اَلْبُرّٰی - مٹی، غبار۔

اَلْبَارِی (دفا) پیدا کرنے والا تیر کا ترانے

والا۔ مثل ہے "اَعْطِ الْقُدُسَ

بَارِیْھَا" کمان کو اس کے تراشنے والے

کے سپرد کرو یعنی کام اسی کو دو، جو

اس کے کرنے کی قابلیت رکھتا ہو۔

اَلْبُرَاۃ وَاَلْبُرَاۃ - تراشہ چھیلن۔

اَلْبُرِیۃ - بُرّاء میں دیکھو

اَلْبُرِیۃ وَاَلْبُرِیۃ - سر کی بھوسی جو گنگھی

کرتے وقت گرتی ہے۔

اَلْبُرَاۃ وَاَلْمُبْرَاۃ - پاؤں، چھری،

تراشنے کا آلہ۔

بَرْدَن، بَرْدَا وَاَبْرٰی - چھین لینا۔

غالب آنا۔ اَلشَّیْءُ مِنْہُ - کوئی چیز

کسی سے ظاہر و قہر آئے لینا۔

اَبْرٰی - مِنْہُ اَلشَّیْءُ - کسی سے کچھ زبردستی

چھین لینا۔

اَلْبُرّٰ - کتان یا روئی کے کپڑے، ہتھیار۔

ج۔ بُرّوز۔

اَلْبُرّة - کپڑے، ہتھیار، ہیئت۔

اَلْبُرّاز - پارچہ فروش، کپڑے بیچنے والا۔

اَلْبُرّازۃ - کپڑے کی تجارت، پارچہ فروشی۔

اَلْبُرّورط - پاسپورٹ، پروانہ، راہداری

اس کے لیے فصیح لفظ الجواز ہے۔

بَرّیز - تیز چلنا۔ سختی سے ہانکنا۔ بھاگ جانا

بہت حرکت کرنا۔

بَرّجہ دن، بَرّجَا - غریب میں مقابلہ کرنا۔

عَلٰی فُلَانًا - کسی کے برخلاف کسی کو

اُکسانا۔ بھڑکانا۔

بَرّجَر - آراستہ کرنا۔ خوبصورت کرنا۔

بَارِجۃ - فخر کرنے میں کسی سے مقابلہ کرنا۔

تَبَارِجَا - باہم فخر کرنا۔

بَرّخہ دس، بَرّخَا - ابھرے ہوئے سینے

اور اندر کی جانب دبی پیٹھ والا ہونا

صفت دَاَبْرٰخہ، مَوْنَث بَرّخَا -

ج۔ بُرّخہ۔

تَبَارِخہ - عَنِ الامر - کسی کام سے پیچھے

بھٹنا۔ پیچھے رہنا۔

اَبْرّخہ - کی سی چال چلنا یا اس جیسی بیٹھک

بیٹھنا۔

بَرّخہ - لہ - کسی سے فروتنی کرنا۔

بَرّز دھن، بَرّزَا - اَلْحُبُوْب - بیچ ہونا

- وَاَبْرٰی اَلْقَدَر - ہانڈی میں مسالہ

ڈالتا۔ بَرّز اِلِیَّ - برتن بھرنا۔

کہتے ہیں: فُلَانٌ بَرّز کَلَامہ و

تَوْبکہ - فلاں نے اپنی گفتگو میں

نک مرچ ملایا۔

اَلْبُرّ - بیچ، تخم، واحد بَرّزۃ، ج

بُرّوز - مصالحہ، ج۔ اَبْرّاز - جبہ

اَبَارِیز - کہتے ہیں: مثلی لا ینحی

علیہ اَبَارِیزُک - یعنی مجھ جیسے

سے تمہاری گپ شب نہیں چھپ سکتی۔

اَلْمَوْرَاۃ اَلْبُرّزَاۃ - کثیر الاولاد

عورت۔

اَلْبُرّاز - مسالہ بیچنے والا۔ بیچ فروخت

کرنے والا۔

اَلْبُرّوز - بیچ نکالنے والوں کی لاٹھی۔

دھوبی کی موگری۔

اَلْبُرّیزار - بازپالنے والا۔ کاشتکار۔ ج

بَرّیزۃ (مغرب)

بَرّز دھن، بَرّزَاۃ - الغلام، خوش

طبع ہونا، ظریف ہونا، صفت (بَرّزِیع)

مَوْنَث بَرّزِیعۃ

تَبَرّز - الغلام، بتکلف ظریف بننا۔

- اَلشَّرّ - فتنہ اور برائی کا بڑا ہونا۔

اَلْبُرّاع - بے جھک اور بے دھڑک چلنے

والا لڑکا۔ ر۔ دَاَبْرٰی (من الغلمان

ذکی و چرب زبان لڑکا۔

اَلْبُرّزِیع - شریف آدمی۔

بَرّزۃ دن، بَرّزَا وَاَبْرٰی - اَلشَّمْسُ

سورج کا نکلنا۔ بَرّز اَلْحَاجِم -

پچھنے لگانے والے کا نشتر لگانا۔

دَمَلہ - خون بہانا۔

اَبْرّخہ - اَلدَّیْبِیعہ - موسم بار کا شروع





ہونا۔ نَجُومِ رَبَّوَزِخْ طُلُوع ہونے والے ستارے۔

الْمَبْزُغ۔ نشتر۔

بَزَقِي دِن، بَزَقَا۔ تھوکتا۔ الارض۔ یونا۔

الْبَزَاق۔ تھوکتا۔

الْبَزَاق۔ ایک قسم کا گھونگا۔ واحد بَزَاق۔ يَزَل دِن، بَزَلًا وَبَزَلًا۔ الشیء کسی چیز میں سوراخ کرنا۔ الشَّوَاب۔

شراب صاف کرنا۔ بَزَلُ الْاَصَر۔ کسی کام کو کر گزرتا۔ رائیہ کوئی نیا رائے دینا۔

بَزَل دِن، بَزُولًا۔ البعیر۔ اونٹ کا دانت نکالنا۔ البعیرُ النَّاب۔ اونٹ کا کچیاں نکالنا۔ صفت مذکر مؤنث (بازِل، ج۔ بَوَازِل وَبَزَل وَبَزَل۔

تَبَزُولٌ وَابْتَزُولٌ۔ الخمر۔ شراب کے برتن میں سوراخ کرنا۔ الْجَسَدُ جَم سے خون ٹپکتا۔ السَّفَاءُ مُشْك کا ٹپکتا۔

اِسْتَبَزَل۔ الشیء کسی شے کو کھونا۔ الخمر۔ شراب کو صاف کرنا۔

الْبَزُولُ۔ سختی۔

الْبَزُول۔ ایک قسم کا پہاڑی کمر۔

الْبَزُول۔ برما۔ سوراخ کرنے کا اوزار۔

الْبَزُول۔ شراب لے گئے کا سوراخ۔

الْبَزِيل۔ تازہ پھوٹا ہوا دانت۔ تجربہ کار آدمی۔ کہا جاتا ہے ”رُحْمِي بِأَشْهَبِ

بَازِل“ وہ سخت اور دشوار معاملہ میں الجھ گیا۔

الْبَزْلَاءُ۔ بڑی مصیبت، عمدہ رائے، کہا جاتا ہے ”امْرَأَةٌ بَزْلَاءُ التَّوَّائِي“

عمدہ رائے رکھنے والی عورت۔ و خَطَّةُ بَزْلَاءٍ صَاف اور واضح

طریق کار۔

الْمَبْزُول۔ شراب صاف کرنے کا آلہ۔ فلط۔ برما۔

رَجُلٌ يَبْزِلُهُ۔ مرد کوتاہ قامت۔

بَزَمَ دِن ص، بَزَمًا۔ علیہ۔ آگے کے دانتوں سے کاٹنا۔ بالشیء کسی شے کو اٹھانا۔ فَلَانًا ثَوْبَهُ۔ کسی کے کپڑے چھین لینا۔ النَّاقَةُ۔ اونٹنی کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دوہنا۔ وَتَرَالْقَوِيسِ۔ کمان کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کھینچ کر چھوڑنا۔

الْبَزِيه۔ کھجور کی چھال یا پتہ، جس سے ترکاری کا منہ باندھا جائے۔

الْمَبْزُوم۔ دانت۔

بَزَمَخٌ بَزَمَخَةً۔ تکرر کرنا۔

بَزَادِن، بَزَوًا۔ علیہ کسی پر دراز دستی کرنا۔ رَبْزَاهُ دَابَّزَاهُ وَابَّزِي

بہ، کسی پر غالب آنا۔ وَبَزَا وَبَزِي يَبْزِي بَزَا وَابَّزِي اِبْزَاءُ

ابھرے ہوئے سینے اور دہنی ہوئی پیٹھ والا ہونا۔ صفت (ابْزِي)،

مؤنث بَزَوَاء۔

تَبَازِي۔ باز سے مشابہت رکھنا۔ سُرْبِي اٹھا کر ہلاتے ہوئے چلنا۔

الْبَزُو۔ مثل ونظیر۔

الْبَزِي۔ دودھ پیتا بچہ، کہا جاتا ہے۔

”هُوَ بَزَقِي“ وہ میرا دودھ شریک بھائی ہے۔

الْبَزَاءُ۔ شیخی، ڈینگ۔

الْبَازِ وَالْبَازِي۔ باز۔

بَسَّ دِن، بَسًا وَابَّسَ۔ الابل۔ اونٹ کو زخمی سے لٹکتا۔ اور بس بس کہنا۔

بَسَّ الْمَالِ فِي الْبِلَادِ۔ مال کو ملک میں پھیلا دینا۔ بَسَّ السَّوِيْقِي سَتُو

کو گھی یا زیتون کے ساتھ ملانا۔ بَسَّ الْقَوْمَ عَنْهُ۔ لوگوں کو دھتکار دینا۔

اَبَّسَ۔ بالناقۃ۔ دوہنے کے لیے اونٹنی کو چمکارنا۔

اِنْجَبَسَ۔ زمین پر پانی کا بہنا۔ ایک طرف بٹنا۔

الْبَسُّ وَالْبَسُّ۔ بِلَا۔ کوشش۔ ج۔ بَسَّاس۔

الْبَسِيْس۔ تھوڑا کھانا۔

الْبَسِيْسَةُ۔ گھی یا زیتون میں ملا ہوا آٹا یا ستو۔

الْبَسُّوس۔ وہ اونٹنی جو بغیر بس بس کئے کے دودھ نہ دے۔ ج۔ بَسُّوس۔

بَسَّ بَسَّ وَبَسَّ بَسَّ۔ بکریوں اور اونٹوں اور بلیوں کے بلانے یا دھمکانے کا کلمہ۔

بَسَّيْسَ۔ بِالْفَعْمِ اَوِ الْاِبِلِ۔ بکریوں یا اونٹوں کو بس بس کہہ کر بلانا۔ بہ۔

کسی سے بس کہنا، یعنی کافی ہے۔

الْبَسْبَسَ۔ بے آب و گیاہ زمین۔ بیابان ج۔ بَسَّيْسَ۔

رُهَاتُ الْبَسَابِسِ وَالْتِهَاتُ الْبَسَابِسِ۔ باطل اور جھوٹی باتیں۔

الْبُسْتَانِ۔ باغ والا۔ باغبان۔

الْبُسْتَانِي۔ مِنَ الْبَنَاتِ۔ باغ میں لگائے ہوئے پودے، گویا بستی جنگلی کے خلاف۔

بَسَّتْ دِن، بَسَّتَا۔ چلنا، کشادہ قدم رکھنا۔ دوڑنے میں سبقت کرنا۔

الْبَسْتَقِ۔ خادم۔

الْبُسْتُوقَةُ۔ مٹی کا مرتبان۔

بَسَّرَكَ دِن، بَسَّرَا وَبَسَّرَا۔ جلدی کرانا غالب آنا۔

وَابَّسَرَ الْقَرْحَةَ۔ زخم سے مواد نکال کر پٹی

باندھنا۔ الحَاجَة۔ بے وقت حاجت
 طلب کرنا۔ النَحْلَة۔ کھجور کے
 درخت میں قبل از وقت قلم لگانا۔
 النَّبَات۔ ترکھاس چرانا۔ وَالْبَسْرُ
 النَّخْل۔ درخت نرہ پر بھجوروں کا
 گدرا جانا۔
 بَسْرُون، بَسْرٍ اَوْ بَسُورًا۔ ترش و ہونا۔
 صفت بایسر۔ اور اسی لیے شیر کو
 بَسُور کہا جاتا ہے۔
 تَبَسَّرَ وَابْتَسَّرَ۔ الحَاجَة۔ بے وقت
 حاجت مانگنا۔ ابْتَسَّرَ بِالْأَمْرِ۔
 کام کو شروع کرنا۔ الشَّيْءُ کسی چیز
 کو تازہ لینا۔
 ابْتَسَّرَ لَوْنًا۔ رنگ بدل جانا۔
 ابْتَسَّرَ مَهْنًا پانی۔ کہا جاتا ہے: وجہہ
 بَسْرٍ تیسری چڑھا ہوا چہرہ۔
 البُسْرُ۔ ہر تازہ شے۔ ہر ادھ کچی کھجور جو
 رنگ پکڑ لے، گدرا کھجور۔ واحد بُسْرَة
 ج۔ بَسَار۔
 البَا سُور۔ ج۔ بَوَاسِير۔ بواسیر کی بیماری
 الْمَبْسُور۔ بواسیر کی بیماری میں مبتلا شخص۔
 الْمُبْسُوت۔ بارش کا پتہ دینے والی
 ہوائیں۔
 بَسَطَ دَن، بَسَطًا۔ الثَّوْب۔ کپڑا پھیلانا
 - الرجل۔ کسی کا دل بڑھانا۔ خوش
 کرنا۔ اَلْيَد۔ ہاتھ پھیلانا۔
 الْعُذْر۔ عذر ظاہر کرنا یا قبول کرنا۔
 - المكان القوم۔ کسی جگہ کا لوگوں
 کو اپنے میں سما لینا۔ فَلَانًا عَلَيْكَ۔
 کسی کو کسی پر فضیلت دینا۔ السَّيْفُ
 تلوار سونٹنا۔
 بَسَطَ دَن، بَسَاطَةً۔ مغرور و بسیط ہونا
 پُر مذاق ہونا۔
 بَسَطَ۔ الثَّوْب۔ کپڑا پھیلانا۔
 بَا سَطَه، کسی سے خوش روئی و خندہ پیشانی

سے بات کرنا۔
 تَبَسَّطَ وَابْتَسَّطَ۔ پھیلنا۔ دراز ہونا۔
 جَرَات کرنا۔ بے تکلف ہونا۔ گھومنا،
 سیر و تفریح کرنا۔
 الْبَاسِطُ۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی
 میں سے ہے۔
 الْبَاسِطَةُ۔ دور کی مسافت۔ يَدٌ رُبُطٌ
 وَبُطٌ اُکھلا ہوا ہاتھ۔
 الْبَسْطَةُ۔ وسعت، قابلیت، کمال۔
 دَسْتَرَس۔ بَسْطَةُ الْعَيْشِ۔ زندگی
 کی فراخی۔
 الْبَسَاطُ۔ بچھونا۔ فرش۔ ج۔ بَسْط۔
 الْبَسَاطُ۔ کشادہ و فراخ زمین
 الْبَسِيطُ۔ مفرد۔ چوڑی زمین۔ پُر مذاق۔
 بَسِيطُ الْوَجْهِ۔ کشادہ رو۔ ہنس مکھ۔
 بَسِيطُ الْيَدَيْنِ۔ کشادہ ہاتھ۔
 فِاض، سخی۔ ج۔ بَسْطَاء۔
 الْمَبْسِطَةُ الْأَرْضِ۔ زمین۔ سطح زمین۔
 بَسَقَ دَن، بَسَقًا۔ تھوکانا۔
 بَسَقَ دَن، بَسُوقًا۔ النَّخْل۔ لمبے
 تنے اور لمبی ٹہنیوں والا ہونا۔ صفت
 رَبَاسِق، اصحابہ و علی اصحابہ
 اپنے ساتھیوں پر فضیلت میں
 برتر ہونا۔
 بَسَقَهُ۔ لمبا کرنا۔
 تَبَسَّقَ۔ لمبا ہونا۔
 الْبَاسِقَةُ۔ سفید صاف رنگ کا بادل۔
 مصیبت۔ ج۔ بَوَاسِقٌ دَبَّوْاسِقٌ۔
 - السَّحَاب۔ ابتدائی بادل۔
 بَسَلْ دَن، بَسَالًا وَبَسَالَةً۔ ہمارا ہونا
 صفت دَبْسُولٌ وَبَاسِلٌ، ج۔
 بَسَلٌ وَبَسْلَاءٌ وَبَسْلٌ۔
 بَسَلْ دَن، بَسُولًا۔ الرجل۔ غصہ یا
 ہمدردی سے کسی کا تیسری چڑھانا۔
 صفت دَبْسُولٌ وَبَسِيلٌ، - النِّيْبِيُّ

نبیذ کا تیز ہو جانا۔ اللَّحْمُ گوشت
 کا بدبودار ہو جانا۔
 بَسَلَهُ دَن، بَسَلًا۔ ملامت کرنا۔ حلال
 ٹھیرانا۔ جائز قرار دینا۔ عَنْ حَاجَتِهِ۔
 کسی کو اس کی حاجت سے منع کرنا۔ رُوکنا۔
 أَبَسَلَهُ۔ کسی کو ملاکی کے سپرد کر دینا۔ رہن
 رکھنا۔ اللہ الشَّيْءُ۔ اللہ کا کسی
 شے کو حرام قرار دینا۔ ہر لکڑی پیش کرنا
 أَبَسَلَ نَفْسَهُ لِلْمَوْتِ۔ موت
 کے لیے تیار ہونا۔
 بَاسَكَر۔ لڑائی میں کسی پر حملہ کرنا۔
 تَبَسَّلَ۔ غصہ یا شجاعت سے ترش و ہونا۔
 تیسری چڑھانا۔
 اسْتَبَسَّلَ۔ مرنے یا مارنے کے لیے لڑائی
 میں گھس جانا۔
 الْبَسْلُ۔ سختی، حلال، حرام، اس میں واحد
 و جمع، مذکر و مؤنث مساوی ہیں۔ کہا جاتا
 ہے: "هَذَا بَسْلٌ عَلَيْكَ" یہ چیز تم پر
 حرام ہے اور کہتے ہیں: "بَسَلًا لَكَ" اس
 کے لیے خرابی ہو۔
 الْبَاسِلُ۔ شیر۔ ج۔ بَدَاسِل۔ کہا جاتا ہے
 "يَوْمَ بَاسِلٌ وَغَضَبٌ بَاسِلٌ"۔
 سخت دن اور سخت غصہ۔
 الْبَسَالَةُ۔ ہمدردی، دہری، کراہت۔
 الْبَسِيلُ۔ ایک قسم کی بوٹی۔
 الْبَسِيلُ۔ حرام۔ مکروہ چہرے والا۔ برتن میں
 شراب کا بقیہ۔
 الْبَسِيلَةُ۔ تلخی کسی چیز کا بقیہ۔
 الْبَسْلَةُ۔ جادو کرنے والے کی اجرت۔
 بَسَمَ دَمْن، بَسْمًا وَتَبَسْمًا وَابْتَسَمَ
 مُسْكِرًا۔ صفت دَبَاسِمٌ وَبَسْمِسْمٌ،
 الْمَبْسِمُ۔ دانت۔ ج۔ مَبَاسِمٌ۔
 الْبَسَامُ وَالْمَبْسَامُ۔ بہت مسکرانے والا۔
 بَسَمَلَ۔ بِسْمِ اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔
 أَبَسَنَ۔ خوش بیٹ و خوش شکل و خوش





وضع ہونا۔
 بَشَّ دس، بَشًّا وِبَشَّاشَةً۔ ہنس مکھ ہونا
 خندہ پیشانی ہونا۔ لَلشَّیءِ۔ کسی چیز کو
 دیکھ کر فرحان و شادان ہونا۔ بالصدیق
 دوست کو دیکھ کر خوش ہونا۔ صفت
 بَشَّ وِبَاشَّ وِبَشَّوش وِبَقَاشَّ۔
 أَبَشَّمت الارض۔ نباتات کا کسی زمین میں
 شاخ در شاخ اور گنجان ہونا۔ آپس
 میں گتھ جانا۔
 بَشَّشَ الرجل۔ خوشی و مسرت کا
 اظہار کرنا۔
 تَبَشَّشَ۔ بہ۔ کسی سے خندہ پیشانی
 سے ملنا۔
 المِشَّتْخَتَلَة۔ جھوٹا صندوق۔
 بَشَّرَ (ن، بَشْرًا)۔ الجَلْدَ۔ کھال پھیلنا۔
 الشَّارِبَ۔ مونچھ مونڈ کر کھال ظاہر
 کرنا۔ الجَّرَادُ الارضَ بَشْرًا۔ بگھی کا ساری
 زمین کی روئیدگی کو چر جانا۔
 بَشَّرَ (ن، وِبَشَّرَ دس) وَاَبَشَّرَ و
 اسْتَبَشَّرَ۔ بہ۔ کسی شے سے
 خوش ہونا۔
 أَبَشَّرَتِ الارضُ۔ زمین کا اگانا۔ کہا جاتا
 ہے: "بَشَّرَنِي بِوَجْدِ حَسَنِ"
 یعنی وہ مجھ سے خندہ پیشانی سے ملا۔
 بَشَّرَ۔ کسی کو خوش کرنا اور اس کو خوش
 خبری سنانا۔
 البَشَّارَةُ۔ خوش خبری۔ جہ بَشَّارَات و
 بَشَائِر۔ بَشَائِرُ الْوَجْهِ۔ پاکیزہ
 خند و خال۔ خوش روئی۔
 بَشَائِرُ الصُّبْحِ۔ آغاز صبح۔
 أَبَشَّرَ۔ فلاناً۔ کسی کو خوش خبری پہنچانا۔
 — از مَرَدِّجْہ۔ کام نے اس
 کے چہرہ کو حسین اور پر رونق بنا دیا۔
 الشَّیءِ۔ کسی شے کو چھیلنا۔
 بَاشَرَ۔ الامر کسی کام کو خود سنبھالنا۔

بَاشَرَ التَّعِيْمَ۔ نعمتوں کا کسی پر ٹوٹ
 پڑنا اور امنڈ آنا۔ المَرَاةُ۔
 جماع کرنا۔
 تَبَاشَرُوا بِالْامْرِ۔ ایک دوسرے کو کسی
 امر کی خوشخبری دینا۔
 البَشْرُ۔ خندہ پیشانی۔ کشادہ روئی۔
 البَشِيرُ۔ خوشخبری پہنچانے والا۔
 جہ۔ بَشْرًا۔
 البَشَّارَةُ۔ حُسن و جمال۔
 البَشَّارَةُ۔ اترا ہوا چہرہ۔ وہ عطیہ جو بشارت
 دینے والے کو دیا جائے۔
 البَشْرُ۔ انسان (مذکر و مؤنث واحد و جمع)
 أَبُو الْبَشْرِ۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ
 السلام کی کنیت۔
 البَشْرَہ۔ کھال کے اوپر کا رخ۔ گھاس
 پات۔ جہ۔ بَشْرَہ۔
 التَّبَاشِيرُ۔ خوشخبری۔ ہر شے کی ابتداء۔
 البَشْرِي۔ خوش خبری۔
 المُبَشِّرَات۔ بارش کی امید دلانے
 والی ہوائیں۔
 بَشِعَ (ن، بَشَعًا وِبَشَاعَةً)۔ الشَّیءُ۔
 بد مزہ ہونا۔ المَرءُ۔ بد شکل ہونا۔
 — فلانٌ بِالْامْرِ۔ مینق و تنگی
 میں ہونا۔
 تَبَشَّعَ۔ بے مزہ ہونا۔ بد مزگی ظاہر کرنا۔
 اسْتَبَشَّعَ۔ کسی کو بے مزہ پانا۔ یا
 سمجھنا۔
 بَشَقَ (ن، وِبَشَقَ دس) بَشَقًا۔
 بالعَصَا۔ لاشعٰی سے مارنا۔
 البَاشِقُ۔ ایک چھوٹا شکاری پرندہ۔
 بَشَكَ (ن، بَشَكًا)۔ جلدی کرنا۔
 الْخَبَرُ۔ کسی خبر کو گھڑنا۔ الثوب
 کپڑے میں دور دور ٹانگے لگانا۔ رَفِي
 عَمَلْہ۔ کام بگاڑنا۔
 ابْتَشَكَ۔ جھوٹ بولنا۔ الکلام۔ بات

گھڑ لینا۔
 البَشَّاکُ۔ بڑا چھوٹا۔
 بَشَحَ (ن، بَشَمًا)۔ مِنَ الطَّعَامِ۔
 بد معنی ہونا۔ مِنَ الشَّیءِ۔ کسی چیز
 سے اکتا جانا۔ صفت بَشَحَ۔
 أَبَشَمَہ۔ الطَّعَامُ۔ خوراک کا بد معنی
 پیدا کرنا۔
 البَشَامُ۔ ایک خوشبودار درخت جس کی
 لکڑی سے خلال بنایا جاتا ہے۔ اس
 کا واحد بَشَامہ ہے۔ دوا فروش۔ اُسی
 کے بیج کو حب بلسان کہتے ہیں۔
 بَصَّ (ن، بَصِيصًا وِبَصًا)۔ چمکنا۔
 جگمگانا۔ الماءُ۔ پانی کا رشنا۔ کہا
 جاتا ہے: "بَصَّ لِي بِسِيرَتِ اس نے
 مجھے تھوڑا دیا۔
 بَصَّصَ۔ الجَرُّو۔ پتے کا آنکھیں کھولنا۔
 الارضُ۔ روئیدگی اگانا۔ الشَّجَرُ۔
 کو نپل نکلنا۔
 البَصَاصَةُ۔ آنکھ۔
 البَصِيصُ۔ چمک دک۔
 بَصْبَصَ بَصْبَصَةً۔ بمعنی بَصَّصَ۔
 وِتَبَصَّصَ۔ الکَلْبُ۔ کتے کا دم ہلانا۔
 — فلانٌ۔ چا پوسی کرنا۔
 بَصَّرَ (ن، وِبَصَّرَ دس) بَصَّرًا و
 بَصَّارَةً۔ وہ وہ۔ کسی چیز کو جاننا۔
 دیکھنا۔
 بَصَّرَ (ن، بَصَّرًا)۔ الشَّیءَ۔ کاٹنا۔
 بَصَّرَ۔ الامر۔ کسی کو کوئی کام بھیجنا۔
 وِبَصَّرَ۔ بھرہ میں آنا۔ الجَرُّو۔
 پتے کا آنکھیں کھولنا۔
 بَاصَرَ۔ الشَّیءَ۔ کسی شے کو دور سے جھانک
 کر دیکھنا۔
 أَبَصَّرَہ۔ دیکھنا۔ بینا کرنا۔ الرجلُ۔ کسی
 کا بصرہ میں آنا۔ أَبَصَّرَ الطَّرِيقَ۔ راستہ
 کا واضح اور نمایاں ہونا۔

تَبَصَّرَ - الشئ - کسی شے کی طرف بخود دیکھنا۔ فی الشئ - کسی بات میں سوچ بچار کرنا۔

تَبَاصَرُوا - کسی چیز کو پہلے دیکھنے میں مقابلہ کرنا۔ ایک دوسرے کو دیکھنا۔

اِسْتَبَصَّرَ - الامر - کسی کام کا ظاہر کرنا۔ اور آشکارا ہونا۔ الامر - ظاہر اور آشکارا کرنا۔ اچھی طرح دیکھنا۔ فیہ۔

سوچ بچار کرنا۔ خورد و خوراک کرنا۔

البَصَر - قوت بصارت، آنکھ، علم۔ ج

اَلْبَصَار - کہا جاتا ہے "اَتَيْنَنَّهُ بَيْنَ سَمْعِ الارضِ وَبَصَرِهَا" یعنی میں اس سے ایسے تنہا مقام پر ملا کہ صرف زمین ہی میری بات سنتی اور مجھ کو دیکھتی تھی۔

البَصْرَة - نفرات و دجلہ کے دو آبے کے مغربی کنارہ پر ایک بستی کا نام ہے

بَصْرَتَان - بھرہ و کوفہ۔

والبصرة - سخت و کثرت زمین، پتھر پیل

اور لیس دار زمین۔ ج۔ بَصَاد۔

البَصِير - دانا، بینا۔ ج۔ بَصْرَاء۔

البَصِيرَة - عقل، زیر کی، عبرت، شاہد

حجت - کہا جاتا ہے "جوار حله بَصِيرَة عَلَيْهِ" یعنی اس کے اعضا

بدنی اس کے خلاف گواہ ہیں۔ "و فراسه ذات بصيرة" پی فرست

ج۔ بَصَايِر۔

البَاصِرَة - آنکھ۔ ج۔ بَوَاصِر۔ کہتے ہیں

"خير العشاء بواصره" ہتر کھانا

وہ ہے جو تاریکی سے پہلے کھایا جائے۔

البَاصِر - چھوٹا گول پالان۔ ج۔ بَوَاصِر۔

البَصْر - کنارہ۔ روئی، چھال۔ بَصْرُ

کحل شئی۔ موٹائی۔ حدیث میں ہے۔

"بَصْرُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَة خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ" ہر آسمان کی موٹائی

پانچ سو برس کی مسافت کے برابر ہے۔

المُبْصِر والمُبْصَرَة - واضح اور کھلی دلیل۔

المُبْصِر - نگہبان، کہا جاتا ہے "رَجَبْتُ عَلَى بُسْتَانِي مُبْصِرًا" میں نے اپنے باغ کے لیے ایک نگہبان مقرر کیا۔

بَصْعَة (د) - بَصْعًا - جمع کرنا۔ الساء

پانی کا بہنا یا رشنا۔

البَصْع - رات کا کچھ حصہ۔

البَصْعَة - بے وقوف، انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی کے درمیان کا فاصلہ۔

البَصْع - بھنی البَصْعَة۔

البَصِيع - جسم سے ٹپکنے والا پسینہ۔ ج

بَصْع -

الْأَبْصَع - احمق۔ یہ لفظ تاکید کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں "أَخَذْتُ حَقِّي أَجْمَعُ أَبْصَعُ" مؤنث بَصْعَاء

ج۔ أَبْصَعُونَ وَبُصْعُ - اجمع سے

پہلے اس لفظ کو لانا روا نہیں۔

بَصَقَ (د) - بَصْقًا - تھوکتا

البَصَاق - تھوک۔

البَصْقَة - بلند سنگلاخ زمین۔ ج۔ بَصَاق۔

بَصْلَة وَتَبَصْلَة - مِنْ ثِيَابِهِ کسی کے

کپڑے اتارنا۔

تَبَصَّلَ - الْقَشْر - چھلکے کا موٹا ہونا۔

البَصَل - پیاز۔ واحد بَصْلَة۔

البَصْلَة - لوہے کا خود۔ کہتے ہیں بِخَرَجُوا كَأَنَّهُمْ الْأَصْلُ وَعَلَى رُؤُسِهِمُ

البَصَل - "وہ نکلے گویا کہ وہ ڈسنے

والے سانپ ہیں جن کے سروں پر لوہے

کے خود رکھے ہیں۔ اصل اصلہ کی

جمع ہے جو ایک زہریلے سانپ کا

نام ہے۔

بَصَلُ الْفَار - جنگلی پیاز۔ کوئی کا ندہ غلام اس

کو بَصْلَة کہتے ہیں۔

بَصَمَ (د) - بَصْمًا - القماش - کپڑے پر نشان لگانا۔

البُصْم - چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کا درمیانی فاصلہ۔ ثَوْبُ ذُو بُصْم - موٹا کپڑا۔ رَجُلٌ ذُو بُصْم - موٹا آدمی۔

البُصْمَة - علامت۔

(البَصَان والبَصَان - ماہ ربیع الآخر۔ ج

بُصَانَات وَابْصِنَة۔

بَصَاد (د) - بَصَوًا - عَرِيْمَة - قرضدار سے

سب کچھ لے لینا۔

البَصْوَة - چنگاری۔

بَصَنَ (د) - بَصَانَة وَبَصُونَة -

موٹاپے کے ساتھ پتلی اور نرم کھال والا

ہونا۔ صفت رَبَصٌ وَبَاصٌ وَبُصِيفٌ

مؤنث بَصْفَةٌ وَبَاصَةٌ وَبُصِيفَةٌ۔

بَصَنَ (د) - بَصًا وَبُصُونًا وَبُصِيفًا۔

الماء - پانی کا تھوڑا تھوڑا بہنا۔

الْحَبْر - پتھر سے پانی کا رشنا بخیل

کے بارے میں کہتے ہیں "فَلَانٌ مَا يَبْصُقُ حَجْرَةً" یعنی نخل کے سبب

فلاں شخص سے بھلائی نہیں مل سکتی۔

العين - آنکھ کا آنسو بہانا۔ کہا جاتا

ہے "فَلَانٌ مَا تَبْصُقُ عَيْنُهُ" یعنی

وہ مصیبت پر بہت مایوس ہے۔

اَوْتَارُ الْعَوْد - سارنگی کے تاروں کو

بجانے کے لیے حرکت دینا۔ لَهْ

دینا۔

بَصْطًا وَبُضَاضَةً - تھوڑا دینا یا تھوڑا پانی

دینا۔

أَبْضٌ - لَهْ کسی کو تھوڑی سی چیز دینا۔

بَصْطَقٌ تَبْضِيفًا - ناز و نعمت کی زندگی بسر کرنا۔

اِبْتَضَّ - الْقَوْم - قوم کو بالکل تباہ کر دینا۔





تَبَضَّحَ - فَلَانًا. کسی سے سب کچھ لے لینا۔
 - حَقَّةٌ مِنْ فَلَانٍ - تھوڑا تھوڑا کر کے حق وصول کر لینا۔
 يَبْزُ بَضْوَضٍ - کم پانی والا کنواں - جہ بضان۔
 البَضَضُ والبَضَاضَةُ - تھوڑا پانی۔
 البَضْ - موٹائی کے ساتھ نرم جسم اور پتلی کھال والا۔ مؤنث بَضْہ۔
 البَضَّة - کھٹا دودھ۔
 البَضِيضَةُ - پوری ملکیت۔ کہتے ہیں۔
 "أَخَوَيْتُ لَهُ بَضِيضَتِي" میں نے اپنی ساری ملکیت اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔
 البَضْرَةُ - رائیگاں، اسی سے ہے "ذَهَبَ كَمُلُهُ بَضْرًا مَضْرًا" اس کا خون رائیگاں گیا۔
 بَضَعَنَ (بَضْعًا وَبَضْعَةً - الشَّيْءَ) کاٹنا۔ نشتر سے چیزنا۔
 البِضْعُ - نشتر۔ جہ مَبَاضِعُ۔
 بَضَعَنَ (بَضْعًا) بَضْعًا - کلام سمجھنا۔
 بَضَعَنَ (بَضْعًا) بَضْعًا - کلام کا واضح ہونا۔
 مِنْ فَلَانٍ - کسی سے اکتا جانا تنگ دل ہونا۔
 أَبْضَعَهُ - کلام کلام یا سمجھا دینا۔
 أَبْضَعَهُ - الشَّيْءَ - سرمایہ و پونجی بنانا۔
 تَبَضَّعَ وَاسْتَبْضَعَهُ - سرمایہ لینا۔ الشَّيْءَ سرمایہ بنانا۔
 تَبَضَّعَ - العَرَقُ - پسینہ کا تھوڑا تھوڑا بہنا۔
 اسْتَبْضَعَهُ - الرجلُ الشَّيْءَ - کسی کے لیے سرمایہ مہیا کرنا۔
 لا تُبْضَعُ - کٹنا۔ چیرا جانا۔ شکاف دیا جانا۔
 بَاضَعَمَ مَبَاضِعَةً وَبِضَاعًا - المرأةُ جماع کرنا۔
 البِضَاعَةُ - تجارت کا سامان۔ سرمایہ۔ پونجی۔ جہ بَضَائِعُ۔

البَاضِعُ - لوگوں کے سامان اٹھانے والا۔
 کالٹنے والی تلوار۔
 الابْضَعُ - مِنَ الرِّجَالِ - لاغر۔
 البِضْعَةُ والبِضْعَةُ - گوشت کا ٹکڑا۔
 جہ - بَضْعٌ وَبِضْعٌ وَبِضَاعٌ وَبِضَاعَاتُ۔
 البِضْعُ والبِضْعُ - رات کا کچھ حصہ تین سے نو تک کی تعداد۔ کہا جاتا ہے بَضْعٌ سِتِّينَ وَبِضْعٌ عَشْرَةٌ مِنَ النِّسَاءِ وَبِضْعٌ وَعَشْرُونَ امْرَأَةً - اور نہ کر کے لیے بَضْعَةُ عَشْرٍ مِنَ الرِّجَالِ وَبِضْعَةُ وَعَشْرُونَ رَجُلًا - لفظ بَضْعُ کو پہلے لانا واجب ہے لہذا عَشْرُونَ وَبِضْعٌ نہیں کہہ سکتے۔
 بَضَعَنَ (بَضْعًا) - الزَّرْعُ - فصل کا موٹے دانہ والا ہونا۔
 البِضْمُ - بال، خوشہ، نفس۔ کہتے ہیں "هُوَ كَدِيمُ البِضْمِ" وہ کریم النفس آدمی ہے۔
 بَطَّارَنَ (بَطًّا) - البَجَرَةُ - زخم کو چیرنا۔
 بَطَّطَ - عاجز ہونا۔ ٹھکانا۔
 البَطُّ - واحد البَطِيئَةِ (بَطْخٌ - زروادہ ہر دو کے لیے آتا ہے) جہ بَطُوطٌ و بَطَّاطٌ۔
 البَطَّة - بَطْخٌ کی شکل کی شیشی۔
 البِطُّ - جہ مَبَاطٌ و البِطَّةُ - نشتر شکاف لگانے کا آلہ۔
 البَطَاظَةُ - آلو۔
 بَطَّبَطَ - البَطُّ - بط کا بولنا۔ پانی میں غوطہ لگانا۔ الرجلُ - کسی کا کمزور رائے والا ہونا۔
 بَطُورَكَ بَطًّا وَبِطَاءً وَبُطُوًا و أَبْطًا - دیر کرنا۔ صفت رَکِبِيٌّ، مؤنث رَکِبِيَّةٌ، جہ - بَطَّاءُ۔

أَبْطَأَ وَبَطَّأَ - علیہ بالامیر۔ کام کو مؤخر کرنا۔
 بَاطًا، طال مٹول کرنا۔
 تَبَطَّأَ وَتَبَاطَأَ - فی سَبْرِهِ - چلتے ہیں پیچھے رہنا۔ دیر لگانا۔
 اسْتَبْطَأَهُ - کسی کو آہستہ پانا یا سمجھنا۔
 البِطْبَاظَةُ - تاجر کا باعث و سبب۔
 بَطَّحَهُ (بَطْحًا) - پھیلانا، پھاننا۔ منہ کے بل گرانا۔
 بَطَّعَهُ - البَيْتُ - گھر میں کنکریاں بچھا کر اس کو ہوار کرنا۔
 تَبَطَّعَهُ وَأَبْطَعَهُ وَاسْتَبْطَعَهُ - الوَادِي - وادی کا پھیلنا کشتادہ ہونا۔
 أَبْطَعَهُ - الرجلُ - آدمی کا منہ کے بل گرنا۔
 البَاطُّ - فَا - منہ کے بل گرنے والا۔
 البَطْحَاءُ - جہ - بَطَّاحٌ وَبَطَّائِحٌ وَبَطْحَاوَاتٌ و دالِ البَطْحِ - جہ - أَبَا بَطْحٍ و دالِ البَطِيئَةِ - جہ - بَطَّارِجٌ - و (البِطَّة) کشتادہ نالہ جس میں ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں۔
 البَطْحَةُ - قد و قامت، مسافت۔
 (البَطْحَةُ) خصلت، عادت، کہا جاتا ہے۔
 "هَذِهِ بَطْحَةُ صَدِيقِي"
 البَطَّاحُ - بخار سے پیدا ہونے والی ایک بیماری جو برسام سے مشابہ ہوتی ہے۔
 اور اسی سے ہے (البَطَّارِحُ)۔
 يَبْطَحُهُ (بَطْحًا) - مچاٹنا۔
 أَبْطَحَهُ - بہت غریبوں والا ہونا۔
 البِطِّيخُ - خربوزہ۔ خربوزے کی بیل۔ واحد بَطِّيخَةٌ۔
 المَبْطِخَةُ - خربوزہ کی فالیز۔ جہ - مَبَاطِخٌ۔
 بَطْرَهُ (بَطْرًا) - چیرنا۔ شکاف دینا۔ صفت مَفْعُولٌ (مَبْطُورٌ و بَطِيخٌ)۔
 بَطَّرَسَ، بَطَّرَا - زیادہ نعمت میں پڑ کر اتر اٹھنا۔ ہلک جانا۔ الحق تنکیر

کے سبب حق کے قبول کرنے سے انکار کرنا۔ الشئ۔ پسندیدہ شے کو ناپسند کرنا۔ النعمۃ۔ جمل و کمر سے نعمت کو حقیر جاننا اور اس کا شکر بجا نہ لانا۔ صفت (بطش)۔
 أَبْطَرَهُ۔ دہشت میں ڈالنا۔ ناشکر گزار بنانا۔ کہتے ہیں: "أَبْطَرَهُ ذُرْعَهُ" یعنی اس پر اس کی طاقت سے زائد لا دیا۔ ذرعة (بطش) کی ضمیر مفعولی سے بدل اشتغال ہے۔
 بَطْرًا۔ بے کار۔ رائیگاں۔ کہتے ہیں: "ذَهَبَ دَمُهُ بَطْرًا" اس کا خون رائیگاں گیا۔
 بَيْطَر۔ الدابة۔ جانور کا علاج کرنا۔ نعل بندی کرتا۔ صفت (بیطش) و بیطرو۔
 بَيْطَار۔ جہ۔ بیاطره۔
 الْبَيْطَرَةُ۔ سالوتری کا پیشہ۔
 الْبَيْطَرِيُّ۔ زبان دراز۔ بہت چمکنے والا۔
 مَوْنَتُ بَيْطَرِيَّةٍ۔
 الْبَطْرِشِيلُ وَالْبَطْرِشِيْنُ۔ ایک قسم کا لمبا کپڑا جس کو کاہن ڈیوٹی اور خدمت کے وقت استعمال کرتے ہیں۔
 الْبَطْرِشِيُّ۔ رومی فوج کا جرنیل۔ جہ۔ بَطَارِقُ و بَطَارِيْقُ و بَطَارِقُهُ۔
 الْبَطَارِقُ۔ لمبا۔
 الْبَطْرُكُ وَالْبَطْرِيرُكُ وَالْبَطْرِيرُكُ۔ پادریوں کا سردار۔ پیشوا۔ عیسائیوں کے کسی گروہ کا سردار۔ جہ۔ بَطَارِكَةُ و بَطَارِيْكُ۔
 بَطَشِي رن ض، بَطَشًا۔ بہ یک بیک کسی کی سخت گرفت کرنا۔ علیہ۔ کسی پر حملہ کرنا۔ ٹوٹ پڑنا۔ صفت دبا طش و دِطَاش و بَطِيش، کہتے ہیں: "فَلَانٌ يَبْطِشُ فِي الْغَلَامِ يَبَاعُ بَسِيحَةً" فلاں علم سیکھنے میں بہت

تیز رفتار ہے۔
 بَاطَش۔ ایک دوسرے کو سختی سے پکڑنا۔
 الْاَبْطَمُ۔ وہ شخص جس کے نیچے کے سامنے والے دانت گر گئے ہوں۔
 الْبَطَاقَةُ۔ خط، پرچہ، پرزہ۔ بَطَاقَةُ الشَّوْبِ۔ کپڑے پر لگی ہوئی چٹ، جس میں کپڑے کی قیمت وغیرہ لکھی ہوتی ہے۔ جہ۔ بَطَاقِيْنُ۔
 بَطَل رن، بَطْلًا و بَطُولًا و بَطْلَانًا۔ غراب ہونا۔ بے فائدہ ہونا۔ بیکار ہونا۔ صفت (باطل) بَطَالَةٌ فِي كَلَامِهِ۔ تسخر کرنا۔ الْفَاعِلُ مِنَ الْعَمَلِ۔ معطل ہونا۔ بے کار ہونا۔ صفت (بَطَال)۔
 بَطْل رن، بَطَالَةٌ و بَطُولَةٌ۔ دلیرو بہادر ہونا۔ صفت (بَطْل)۔ جہ۔
 أَبْطَال۔ مؤنث بَطْلَةٌ۔ جہ۔
 بَطَلَات۔
 بَطْلَةٌ۔ کسی کو باطل کرنا۔ بیکار کرنا۔
 أَبْطَل۔ باطل کام کرنا۔ صفت (مُبطِل)۔
 الشَّيْءُ۔ چیز کو ضائع کرنا۔ باطل کرنا۔
 الرَّجُلُ۔ تسخر کرنا۔
 تَبَطَّل۔ شجاع بننا۔ بیکار رہنا۔ کہا جاتا ہے: "تَبَطَّلُوا بَيْنَهُمْ" انھوں نے آپس میں لغو و باطل کام کیے۔
 الْبَطَالَةُ۔ بیکاری۔ کام سے فراغت۔
 الْبَطَالَةُ۔ بہادری۔
 الْبَا طِل۔ فاعل، ناحق، بے اصل۔ جہ۔
 أَبَا طِيل۔ شیطان۔ جادوگر۔ جہ۔
 بَطْلَةٌ۔
 الْبُطْل۔ باطل، جھوٹ۔ کہا جاتا ہے: "ذَهَبَ دَمُهُ بَطْلًا" اس کا خون رائیگاں گیا۔
 الْبَطْلَات۔ لغویات۔ فضولیات۔
 الْاَبْطَالَةُ وَالْاَبْطُولَةُ۔ باطل۔

الْبُطْمُ وَالْبُطْمُ۔ بَن۔ بَن کا پھل۔
 بَطْن رن، بَطُونًا و بَطْنًا۔ پوشیدہ اور چھپا ہوا ہونا۔ صفت (بَا طِن)۔
 بَطْن رن، بَطْنًا۔ الْوَادِي۔ وادی میں داخل ہونا۔ كُؤْلُهُ۔ پیٹ پر مارنا۔
 بَطْن الْأَمْرِ۔ کسی کی بات کی تہہ تک پہنچنا۔ بَطُونًا و بَطَانَةً۔
 يَفْلُانٍ وَمَنْهُ۔ کسی کے خواص میں سے ہونا۔
 بَطْن رن، بَطْنًا و بَطْن رن، بَطَانَةً۔ بڑے پیٹ والا ہونا۔ توند والا ہونا۔ صفت (بَطْن و بَطِين و مَبْطَان)۔
 بَطْن بَطْنًا۔ پیٹ کے درد میں مبتلا ہونا۔ صفت (مَبْطُون)۔
 بَطْن و أَبْطَن۔ الشَّوْبِ۔ کپڑے میں استر لگانا۔ الدابة۔ جانور پر تنگ کرنا۔
 أَبْطَن۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو چھپانا۔
 بَا طَنَهُ۔ سرگوشی کرنا۔ دوستی کرنا۔
 تَبَا طَنَ۔ المکان۔ مکان کا دور ہونا۔
 تَبَطَّنَ و اسْتَبَطَّنَ۔ الشَّيْءُ۔ اندر داخل ہونا۔ الْأَمْرُ۔ بات کی تہہ تک پہنچنا۔
 الْبَطْنُ۔ پیٹ۔ ہر چیز کا اندرونی حصہ۔
 بَطْنُ الْأَرْضِ۔ زمین کا پست و نشیبی حصہ۔ مِنَ الْقَوْمِ۔ قوم کا وہ گروہ جو قبیلہ سے کم ہو۔ جہ۔ بَطُونُ و أَبْطَنُ و بَطْنَان۔ کہا جاتا ہے: "أَلْقَيْتُ الدَّجَاةَ ذَا بَطْنَيْهَا" مرغی نے انڈہ دیا۔ وَصَاحَتْ عَصَا فِئْرِ بَطْنِهِ۔ وہ جھوکا ہوا۔
 الْبَطْنُ۔ پیٹ کی بیماری۔
 الْبَطْنُ۔ حویلی، جس کا نصب العین صرف پیٹ ہو۔
 الْبَطْنَةُ۔ دُبر۔
 الْبَطْنَةُ۔ بسیار خوری کے سبب بہت





شکم پُری۔

البَطَان - جر۔ اَبْطِن وِبُطْن - تنگ جس سے جانور کا پالان کسا جاتا ہے۔ ایک کپڑا جو گھوڑے پر اس کو گھٹیوں سے بچانے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ عَرِيضُ الْبَطَانِ" یعنی فلاں غنی اور خوشحال ہے۔ وَالتَّقَتْ خَلَقْنَا الْبَطَانِ - معاملہ سخت ہو گیا مصیبت سنگین ہو گئی۔

بَطَاكَة - الثوب - کپڑے کا استر۔

المرجل - آدمی کے اہل و عیال اور خواص - بھید - جر۔ بَطَائِن -

البَاطِن - ہر شے کا اندرونی حصہ، پوشیدہ - مِنَ الْاَرْضِ - زمین کا پست حصہ - مِنَ الْقَدَمِ - پاؤں کا تلو - جر۔ اَبْطِنَتْ وِبُطْنَان -

البَاطِنَة - بھید۔

البَطِين - دور - کہا جاتا ہے "شَاؤُ الْبَطِينِ" مسافت بعیدہ - "كَيْسُ الْبَطِينِ" پتیلی بھری ہوئی۔

البَطِين - چاند کی منازل میں سے ایک منزل کا نام۔

الْمُبْطِن - پتلے اور چپکے ہوئے پیٹ والا۔ الْمُبْطِنَة - ایک قسم کی کشتی۔

البَاطِلَة - شراب کے لیے شیشہ کا برتن - جر۔ بَوَاطِل -

بَطْرَن، بَطَا - الْعُود - سازنگی کے تاروں کو بجانے کے لیے حرکت دینا۔

اَبْطَا - الرجل - موٹا ہونا - صفت بَطِيْطٌ الْبَطْ - قَطٌّ کا تابع ہے - کہا جاتا ہے "هُوَ قَطٌّ بَطٌّ" وہ سخت مزاج و تند خو ہے۔

بَطَوْدَس، بَطْرَا - الرجل - غیر مختون ہونا - صفت اَبْطَر - جر۔ بَطْر - مَوْنَتْ بَطْرَاء -

الْبَطْر - انگوٹھی۔

البَطْر - رائیگاں - کہا جاتا ہے "ذَهَبَ دَمْلُ بَطْرَا" اس کا خون رائیگاں گیا۔

المَبْطَر - ختنہ کرنے والا۔

بَعْرَدَن مَض، بَعَا - الماؤ - پانی کا بکثرت بہانا۔ اَلْبَعَاغ - سامان - بادل میں بہا ہوا پانی جو ابھی نہ برسا ہو - کہا جاتا ہے "الْقَلْبُ السَّحَابُ بَعَاغٌ" یعنی بادل نے سارا پانی برسا دیا۔

الْمَبْعُكَة - تیز اور مسلسل کلام۔

اَلْبَعَايَة - فقراء جن کے پاس کچھ بھی مال و جائداد نہ ہو۔

بَعَثَهُ دَف، بَعَثًا وَتَبَعًا - تنہا بھیجا۔

بِه - دوسرے کے ساتھ بھیجا۔ كُ بَرَا تَكْبِيْرَةً كَرْنَا - ابھارنا - کہا جاتا ہے "بَعَثَهُ مِنْ نَوْبِهِ" اس نے اس کو نیند سے جگایا۔

"بَعَثَهُ عَلَى الشَّيْءِ" اس نے اس کو کسی کام کے لیے اکسایا - اَلْمَبِيْت - اٹھانا۔

دوبارہ زندہ کرنا - چنانچہ یَوْمَ الْبَعْثِ اسی سے ہے - یعنی دوبارہ اٹھنے کا دن۔

تَبَعَتْ - الشَّيْءُ - کسی شے کا تیزی سے نکلنا ظاہر ہونا - اَلشَّيْءُ مِنْهُ - شعر کی آمد ہونا۔

تَبَا عَشُوا - عَلَى الشَّيْءِ - بعض کا بعض کو کسی کام پر اکسانا۔

اَلْبُعْث - بھیجا جانا - تیزی سے ظاہر ہونا۔

فِي السَّيْرِ - چلنے میں جلدی کرنا۔ اَلْبُعْثَة - بھیجنا۔

اَلْبُعْث وَاَلْبُعْث - فوج - ہر وہ جماعت جسے کیس بھیجا جائے - جر۔ بَعَث و بَعُوْث -

اَلْبُعْث وَاَلْبُعْث - وہ جس کے غم اس کو نیند سے بیدار رکھیں - فوج بھیجی ہوئی

جماعت - جر۔ بَعُث و بَعُوْث -

اَلْبَاْعُوْث - عیسائیوں کی اصطلاح میں استسقا کی نماز دکنہ سر یا نہر

اَلْبَاْعِثُ وَاَلْبَاْعِثَة - باعث، سبب - جر۔ بَوَاعِث -

اَلْبَوِیْثُ وَاَلْمَبْعُوْث - بھیجا ہوا۔

بَعُوْثُهُ بَعُوْثَةً - بکیرنا - اَلْمَتَاع - سامان کا اٹنا پلٹنا۔

تَبَعَتْهُ - اَلطَّالِبُ - کہتے ہیں: تَبَعَتْهُ تَقْصِي - یعنی میری طبیعت میں بگاڑ ہو کر متلی ہونے لگی۔

يَعْبَرُ دَف، يَعْجَا - اَلْبَطْن - پیٹ پھاڑنا

چرنا۔ صفت دباعہ - صفت مفعولی (مَبْعُوْج و بَعِيْج) - بعیجہ مذکر و مؤنث ہر دو کے لیے آتا ہے - جر۔ بَعُوْجِي -

اَلْاَرْضُ اَبَاْرَا - زمین میں بکثرت کنویں کھودنا۔ اَلْمَطْرُ اَلْاَرْضِ - بسبب

کثرت و شدت بارش کا زمین کے پتھروں کو نکالنا۔

تَبَعَجَ و اَنْبَعَجَ - بادل کا برس کر کھل جانا۔ اَلسَّيْلُ - سیلاب کا شتابانی سے بہنا۔ علیٰ بالکلوم - بکثرت ہونا۔

اَلْبَارِعِجَة - وادی کا فراخ حصہ - جر۔ بَوَاعِج -

بَعْدَ دَك، بَعْدًا و بَعْدًا (دَس) بَعْدًا - دور ہونا۔ ہلاک ہونا۔ مرنا۔ صفت

(بَاْعِد) - جر۔ بَعْد - (وَرَبْعِد) مفرد و جمع ہر دو کے لیے (وَرَبْعِد) جر۔

بُعْدًا و بُعْدًا و بُعْدًا - اَبْعَد - دور ہونا (اَبْعَدَ دَعْدًا و بَاْعَدًا) دور کرنا۔

تَبَعَدَ - دور ہونا۔

تَبَاْعَدُوْا - ایک کا دوسرے کو دور کرنا۔

تَبَاْعَدَ و اَبْتَعَدَ و اَسْتَبَعَدَ - عندہ کسی سے دور ہونا۔ اِسْتَبَعَدَ الشَّيْءُ -

کسی چیز کو دور پانا یا سمجھنا۔
 الْبُعْدُ وَالْبُعْدُ وَالْبُعْدُ - دوری۔ رائے
 ہوشیاری۔ بُعْدُ الْهَيْ - بددعا ہے
 یعنی اللہ اس کو ہلاک کرے، یا اپنی
 رحمت سے دور کرے۔
 الْبُعَاد - بعید کے مانند صفت ہے۔
 بُعْدٌ - پیچھے۔ بعد ازاں۔ یہ ظرف زمان
 ہے۔ اور مضاف ہو کر آتا ہے اس
 کا مضاف الیہ اگر محذوف ہو تو یہ
 مبنی برضہ ہوتا ہے یا منصوب بہ
 تثنیہ۔ کہتے ہیں۔ بُعْدٌ وَبُعْدٌ
 مِنْ بُعْدٍ۔
 الْأُبْعَد - بہت دور۔ خاتن۔ جہ۔ أَبَاعِدْ۔
 رَجُلٌ (مُبْعِدٌ) دور دراز کا سفر کرنے
 والا۔
 بَعِدْ (دس) بَعْدًا - الجَمَلُ - اونٹ کا نو
 سال یا چار سال کا ہونا۔
 بَعْدَ (دس) بَعْدًا - مینگنی کرنا۔
 بَعْدَ - الیعی وَابْعَدْ وَتَبْعَدَ - انترپی
 میں سے مینگنی نکالنا۔
 الْبَعْرُ وَالْبَعْر - جہ۔ أَبْعَار - مینگنی۔ واحد
 (بَعْرَة) جہ۔ بَعْرَات۔
 الْبَعِير - نو سالہ یا چار سالہ اونٹ یا اونٹنی
 جہ۔ بُعْرَانِ وَالْبَعْرَة - وجہ۔
 أَبَا عِدْ وَأَبَا عِیْر۔
 الْمَبْعَرُ وَالْمَبْعَر - مینگنی نکلنے کی جگہ۔
 بَعْرَقَ بَعْرَقَةً - پرگندہ کرنا۔ بکھیرنا۔
 بُعِضَ - الرجلُ - کسی کا چھروں سے ستایا
 جانا۔ صفت (مَبْعُوض)۔
 بَعِضَةٌ - حصہ بنانا۔ الگ الگ جُزء کرنا۔
 تَبْعَضَ - جُزء جُزء ہونا۔
 أَبْعَضَ - المكانُ - کسی جگہ بکثرت چھڑ ہونا
 صفت (بَعْضٌ وَتَبْعُوض)۔
 بَعْضُ - الشیء - کسی چیز کا ایک جُزء یا
 حصہ۔ کبھی ایک فرد کے معنی بھی دیتا

ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ بَعْضُ اللَّیَالِیْ؛
 راتوں میں سے ایک رات۔ جہ
 أَبْعَاض -
 الْبَعُوض - مچھر۔ واحد (بَعُوضَة)۔
 بَعْطَ (دس) بَعْطًا - فی الْجَهْلِ وَالشُّوم -
 مبالغہ کرنا۔ زیادتی کرنا۔ الحيوان۔
 جانور کو ذبح کرنا۔
 أَبْعَطَ - فَلَانٌ - کسی کا اپنی قدر سے بڑھ
 جانا۔ الرجلُ - کسی کو اس کی طاقت
 سے زیادہ تکلیف دینا۔ فی الجہل
 جہالت میں زیادتی کرنا۔
 بَعَقَ (دس) بَعَقًا - الْمَطَرُ الْأَرْضَ
 بارش کا زمین کو شق کر دینا۔ ترخا دینا
 دراڑیں پیدا کر دینا۔ بَعَقًا - الْجَمَلُ
 اونٹ ذبح کرنا۔ البئر - کنواں
 کھودنا۔
 بَعَقَ - الذِّقَّ - مشک بھاڑ دینا۔
 تَبَعَقَ - وَأَتَبَعَقَ دَاتَبَعَقَ - فی الکلام۔
 کلام شروع کرنا۔ السَّحَابُ - بادل کا
 زور سے برسنا۔
 الْبَاعِقُ - مَوْدَن -
 الْبُعَاق - تیز برسنے والا بادل۔ پیچ۔
 مَبْعَق - الْمَفَازَة - بیابان کی فضا
 و کشادہ جگہ۔
 الْبُعْقُطُ وَالْبُعْقُوط - پست قد۔
 وَالْبُعْقُوطَة - گریلے کی گولی۔
 بَعَلَ (دس) بَعَعًا - الْجَسْمُ - جسم کا
 سخت اور کھردرا ہونا۔
 الْبَاعِلُ - بیوقوف۔
 بَعْلُوكَة - النّاس - لوگوں کے جمع ہونے
 کی جگہ۔ الصَّيْفُ - موسم گرما کی
 گرمی۔ الشَّرّ - فساد کا درمیان۔
 بَعَلَ (دس) بَعَالَةً وَبُعُولَةً - الرجلُ
 لِلْمَرْأَةِ - شوہر ہونا۔ خاوند بننا۔
 بَعَلَّتِ الْمَرْأَةُ - خاوند والی ہونا۔

بَعَلَ (دس) بَعَلًا - بامرہ۔ اپنے معاملہ میں
 حیران و متعبر ہونا۔ صفت (بَعْلٌ) مَوْنُث
 بَعْلَةً۔
 تَبَعَلَّتِ الْمَرْأَةُ - بیوی کا خاوند کی اطاعت
 و فرمانبرداری کرنا۔
 بَاعَلَ - الْقَوْمُ قَوْمًا - ایک قوم کا دوسری
 قوم میں شادی بیاہ کرنا۔ رشتہ ناتا کرنا۔
 اسْتَبَعَلَ - الْمَكَانُ - کسی زمین کا بارانی
 ہونا۔ الرجلُ لِلْمَرْأَةِ - شوہر و
 خاوند ہونا۔
 الْبَعْلُ - جہ۔ بَعُولٌ وَبُعُولَةٌ
 شوہر۔ خاوند، بیوی کو بَعْلٌ بھی کہتے
 ہیں اور بَعْلَتٌ بھی۔
 الْبَعْلُ - مالک، سردار۔ کہتے ہیں۔ مَن
 بَعْلٌ هَذِهِ النّاقَةِ؟ اس اونٹنی
 کا مالک کون ہے اور اس معنی کو پیش
 نظر رکھتے ہوئے کنعانی اور دیگر بُت
 پرست اپنے معبودوں کو بَعْلٌ کہا
 کرتے تھے۔ الْبَعْلُ مِنَ الْأَرْضِ -
 بارانی زمین۔
 بَعْلَتُكَ - ملک شام میں ایک شہر ہے جس
 کے آثار قدیمہ آج تک مشہور ہیں۔
 نسبت کے لیے بَعْلَتُکَیْ وَبَعْلُکَیْ
 کہتے ہیں۔
 بَعَا تَبْعَى وَبَعْعَى - بَعَّوْا وَبَعَّیْ بَعْعًا
 جرم و خطا کا مرتکب ہونا۔ ہا بالین
 کسی پر نظر بد لگانا۔ علیہم الشَّرّ۔
 لوگوں پر فساد و برائی برپا کرنا۔ الشیء
 کسی چیز کو مستعار لینا۔
 بَعَّ (دس) بَعًّا - الدَّم - خون کا جوش
 میں آنا۔
 بَغِغَ بَغِغَةً - الْبَسَاط - فرش روندنا۔
 الْمُبَغِغُ - غیروا مضع کلام کرنے والا۔
 جلد باز۔
 بَغْتَه (دس) بَغْتًا وَبَاغْتَه - کسی کے پاس





یک بیک آنا۔ اچانک آنا۔ ناگاہ آنا۔
 کہتے ہیں۔ کُتُّ اَمِنْ مِنْ بَغْتَاتٍ
 العَدُوِّ میں دشمن کے اچانک آ
 جانے سے بے خوف نہیں ہوں۔
 بَغْتَاتٍ (بَغْتَاتٍ) سبزی مائل سفید ہونا۔
 غبار آلود ہونا۔ صفت (بَغْتَاتٍ)
 مؤنث۔ بَغْتَاتٍ۔
 الَبَغْتِ۔ ایک آبی پرندہ۔ ج۔ بَغْتِ
 وَاَبَاغْتِ۔
 البَغْتَةُ۔ سبزی مائل سفیدی۔
 البَغْتَاءُ۔ مِنَ النَّاسِ۔ لوگوں کا مخلوط
 گروہ۔ کہتے ہیں۔ "دَخَلْنَا فِي الْبَغْتَاءِ"
 یعنی ہم عام لوگوں کی جماعت میں
 داخل ہوئے۔
 البَغَاتِ۔ سبزی مائل سفید رنگ کا ایک پرند
 جو کدھ سے قدرے چھوٹا اور اڑان میں
 سست ہوتا ہے۔ ج۔ بَغَاتَانِ۔ اور
 عرب کے اس قول۔ اَنَّ الْبَغَاتِ
 يَارِضُنَا يَسْتَنْسِرُكَ مطلب یہ ہے
 کہ ہمارے پڑوس میں پہنچ کر ذیل و خوار
 بھی باعزت و شرف ہو جاتا ہے۔
 الْبَغِيْثِ۔ گھیسوں۔
 بَغِيْثُ الْقَوْمِ۔ لوگوں کا جوش میں آنا اور
 مخلوط ہونا۔
 بَغِيْثُہ۔ جدا جدا کرنا۔ متفرق کرنا۔
 بَغِيْثُ نَفْسِہ و تَبَغِيْثُہ۔ جی کا مالش
 کرنا۔ متلی ہونا۔
 الْبَغِيْثُ۔ احمق، بے وقوف۔
 بَعْدَادُ۔ عراق کا مشہور شہر جس کو مدینۃ
 السلام، زوداء اور دار السلام
 بھی کہتے ہیں۔
 تَبَعْدَادُ۔ بغداد کی طرف منسوب ہونا۔ اہل
 بغداد سے مشابہت رکھنا۔
 بَغِيْثُ دَسْ بَغِيْثُ و بَغِيْثُ۔ پانی پینا۔ اور
 سیراب نہ ہونا صفت (بَغِيْثُ و بَغِيْثُ)

ج۔ بَغَارِی و بَغَارِی۔
 بَغَرَتْ۔ (دَن) بَغُوْرَا۔ السماء۔ آسمان
 سے بارش برسنا۔ النجم۔ ستارہ
 کا گرنا۔
 بَغَرَتْ الْاَرْضُ۔ زمین پر بارش برسنا۔
 الْبَغَرُ۔ وہ پیاس جو نہ بجھے۔ وَالْبَغَرُ۔
 بارش کی زور کی پوچھا۔ کہتے ہیں۔
 "تَغَرُّ قَوْمًا شَغَرُ بَغَرٍ" لوگ چاروں
 طرف بکھر گئے۔
 الْبَغْرَةُ۔ پانی کی طاقت۔
 بَغْرَةُ دَن) بَغْرًا۔ لالچھی سے مارنا۔
 الْبَغْرُ۔ سرعت حرکت۔ چستی۔
 الْبَاغِرُ۔ چُست، اوباش، بدکار۔
 الْبَاغِرِيَّةُ۔ حریر کے مانند ایک قسم کا
 کپڑا۔
 الْبُوْعَازُ۔ اُبنائے۔ ج۔ بَوَاغِيْزُ۔
 بَغِيْثُ دَن) بَغِيْثُ۔ السماء۔ ہلکی
 بارش برسانا۔ الْبَغِيْثُ إِلَى اَمَلٍ۔
 بچہ کار و کرماں کے پاس جانا۔
 بَغِيْثُ الْاَرْضِ۔ زمین پر ہلکی ہلکی بارش
 گرنا۔ پھوار پڑنا۔
 الْبَغِيْثُ۔ پھوار۔ ہلکی بارش۔
 بَغِيْثُ و بَغِيْثُ دَن) و بَغِيْثُ دَسْ)
 بَغَاَصَةُ۔ دشمنی کرنا۔ نفرت کرنا۔
 جب آپ کہیں کہ مَا الْبَغِيْثَةُ اِلَّا
 تو مطلب ہوگا کہ کوئی آپ کے نزدیک
 بہت مبغوض ہے اور آپ اس کی خبر
 دے رہے ہیں۔
 بَغِيْثُ۔ الیاء۔ کسی سے نفرت دلانا۔
 کسی کا دشمن بنانا۔
 الْبَغِيْثُ۔ دشمنی کرنا۔ نفرت کرنا۔ جب
 آپ کہیں "مَا اَبَغِيْظُکَ" تو مطلب
 یہ ہوگا کہ آپ کسی کی نظر میں مبغوض
 ہیں، اور اس کی آپ خبر دے رہے
 ہیں۔

تَبَغِيْثُ۔ الیاء۔ کسی سے دشمنی کرنا۔ نفرت
 کرنا۔
 تَبَاغِيْثُ۔ ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا۔
 الْبَغِيْثُ۔ دشمنی۔ نفرت۔
 الْبَغِيْثُ و الْبَغِيْثُ و الْبَغَاَصَةُ۔ سخت
 دشمنی۔ الْبَغِيْثُ۔ دشمنی رکھنے والے
 لوگ۔
 الْبَغِيْثُ۔ سخت دشمنی رکھنے والا۔
 بَغْلَهُمُ دَن) بَغْلًا۔ اولاد کو باپ کی
 طرف سے بد نسل یا بد قوم بتانا۔ دوغلا
 ٹھہرانا۔
 بَغْلُ۔ بمعنی بَغْلُ۔ فِي الْمَشْيِ۔ تھک جانا
 عاجز ہونا۔
 الْبَغْلُ۔ خچر۔ ج۔ بَغَالُ وَاَبْغَالُ۔ مؤنث
 بَغْلَةُ۔ ج۔ بَغْلَاتُ و بَغَالُ۔
 الْبَغَالُ۔ خچر والا۔ خچر لگانے والا۔
 بَغِيْثُ دَن) بَغِيْثُ و بَغِيْثُ و بَغِيْثُ و
 تَبَغِيْثُ۔ الْبَغِيْثُ۔ ہرن بہت
 دھیمی آواز سے بولنا۔ صفت (بَغِيْثُ)
 و بَغِيْثُ۔ بَغِيْثُ الرجل صاحبہ۔
 کسی کا اپنے ساتھی سے غیرواضح بات کرنا
 بِالْعَمَدِ۔ نرم آواز سے کلام کرنا۔
 الْبَغَامُ۔ ہرن کی آواز۔
 الْبَغِيْثُ۔ عورتوں کا ہار (ترکی کلمہ) ج
 بَغِيْثُ۔
 بَغَانُ) بَغَوًا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو غور سے
 دیکھنا۔ علیہ۔ ظلم و زیادتی کرنا۔
 صفت (بَغِيْثُ)
 الْبَغِيْثُ۔ کچا پھل۔ مِنَ النَّبَاتِ۔ شگوفہ
 جو سفید نکلا ہو۔
 بَغِيْثُ دَن) بَغِيْثُ و بَغِيْثُ و بَغِيْثُ
 و بَغِيْثُ۔ الشَّيْءُ۔ طلب کرنا۔
 الرجل۔ حق سے ہٹ جانا۔ نافرمانی
 کرنا۔ علیہ۔ دلازدستی کرنا۔ ظلم و
 تعدی کرنا۔ صفت (بَغِيْثُ) ج۔ بَغَاةُ و

بُعَيَّان - السماء - آسمان کا سخت بارش برسانا۔ اَلْمَمْتَةُ - لوٹری کا زنا کرنا۔
 - الجورح - زخم کا متورم ہونا۔ خراب ہونا۔ پیپ سے بھر جانا۔
 اِبْتَغَى وَتَبَغَّى - الشَّيْءَ - طلب کرنا۔
 اَبْغَاهُ - الشَّيْءَ - کسی کو کسی شے کا طالب بننا کسی شے کی طلب میں مدد دینا۔ کہا جاتا ہے "اَبْغَى ضَالَّتِي" میری گمشدہ شے کی تلاش میں میری مدد کرو۔
 يَابَغَتْ اَلْمَمْتَةُ بَغَاءً وَهَبَاغَةً - لوٹری کا زنا کرنا۔
 تَبَاغَى - القَوْمُ - بعض کا بعض پر ظلم و تعدی کرنا۔
 اِئْتَبَغَى - سهل اور آسان ہونا۔ کہا جاتا ہے "لَا يَنْبَغِي لَكَ اَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ" تمہارے لیے ایسا کرنا لائق و مناسب نہیں۔
 اِسْتَبَغَى - الشَّيْءَ - طلب کرنا۔ القَوْمُ - طلب کرنے میں مدد چاہنا۔
 اَلْبَغَى - ظلم، قصور، نافرمانی، بہت بارش، فساد۔ کہا جاتا ہے "بَرِيءٌ جَرَحَهُ عَلَى بَغْيٍ" یعنی زخم گو مندمل ہو گیا، مگر اندر جو رہا باقی ہے۔
 اَلْبُغْيَةُ وَالْبُغْيَةُ وَالْبُغْيَةُ وَالْبُغْيَةُ - مرغوب شے، مطلوب سفر۔
 اَلْبَغْيُ - زنا کار۔ فاحشہ عورت۔ جہ بَغَايَا - بَغَايَا الْجَيْش - فوج کے براہل دستے۔
 اَلْمَبْغَى وَالْمَبْغَاةُ - طلب کی نوعیت یا اس کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "بَغِيْتُ الدَّالَّ مِنْ مَبْعَاتِهِ" میں نے مال کو مناسب ڈھب اور طریقہ سے تلاش کیا۔ جیسے کہتے ہیں "اَتَيْتُ اَلْاَمْرَ مِنْ مَاتَاتِهِ" میں نے کام کو مناسب طریقہ سے کیا۔
 بَقِيَ دَن، بَقَا - المَاءُ مِنْ فِيهِ - پانی

منہ سے بڑو پھینکنا۔ لَنَا الْعَطَاءُ بخشش کو وسیع کرنا۔ مَالَهُ مَالٌ بَكِيرٌ کٹانا۔ الجواب - بھاڑنا۔ چیرنا۔
 بَقَاً وَبُقُوًا - اَلنَّبْتُ - نبات کا اگنا، پھوٹنا۔ السماء - لگاتار بارش برسانا۔ موسلا دھار برسانا۔ اَلْمَرْأَةُ عورت کا کثیر الاولاد ہونا۔ اَلْبَيْتُ گھر میں بکرت کھل ہونا۔ بَقَاً وَبَقَاً وَابْنٌ - عَلَى الْقَوْمِ - بہت بکواس لگنا۔ بہت بک بک کرنا۔
 بَقَّقَ - مَالَهُ، مَالٌ بَانْطًا - دَائِقُ اَلْبَيْتِ گھر میں بہت کھل ہونا۔ وَابْنٌ وَكَدُّ فُلَانٍ - کسی کی اولاد بہت ہونا۔
 اَبَقَّتِ الْمَرْأَةُ - عورت کا کثیر الاولاد ہونا۔ السماء - آسمان سے لگاتار بارش برسنا۔
 اَلْبَقَاقُ - گھر کا روی اور نا کارہ سامان۔ رَجُلٌ بَقَاقٌ وَبَقَاقَةٌ - بہت بکواسی آدمی۔ بَكُوُ -
 بَقَّقَ بَقْبَقَةً - اَلْكُوْزُ فِي الْمَاءِ - پانی میں ڈوبتے وقت کوزے کا بقی بقی کرنا۔ اَلْقَدَرُ - ہانڈی کا اُبلنا کھد کھدانا۔ الرَّجُلُ - کسی کا بہت بک بک کرنا۔
 اَلْبَقْبَاقُ - باتنی، بکواسی۔ کہتے ہیں۔ "رَجُلٌ بَقَاقٌ وَبَقَاقٌ" آدمی بہت بک بک کرنے والا ہے۔
 اَلْبَقْبَقَةُ - کپڑے وغیرہ کی کٹھڑی۔ اَلْبَقْدُوْسُ - ایک قسم کی نبات۔
 بَقْرَهُ دَن، بَقْرًا - بھاڑنا۔ کھولنا۔ وسیع کرنا۔
 بَقْرَدَسٌ بَقْرًا - نگاہ کا پتھر جانا۔ اَلْبَقْرَةُ اَلْمَرْأَةُ عَنْ جَنِيْنِهَا - عورت کا پیٹ چیر کر اس کا بچہ نکالنا۔
 اِبْتَقَر - بچ سے پھٹ جانا۔ شق ہو جانا۔

تَبَقَّرَ - اَلْوَجْلُ - کسی کا وسیع العلم و کثیر المال ہونا۔
 اَلْبَقَرُ - گائے۔ بیل (اسم جنس) واحد بقرة - جہ - بقرات و بَقْرٌ وَاَبَقْرٌ وَاَبَقْرٌ وَاَبَقْرٌ - بَقْرًا اَوْ حَشًا يَا اَبَقْرًا اَوْ حَشًا - نیل گائے۔
 جَوْعُ اَلْبَقَرِ - شدت کی بھوک۔ عِيُونُ اَلْبَقَرِ - ایک قسم کا انور۔ بقور الماء گائے سے ملتی جلتی ایک قسم کی مچھلی۔
 اَلْبَقْرُ وَالْبَقَارَى - جھوٹ، مصیبت، کتے ہیں "جَاءَ فُلَانٌ بِالْبَقْرِ وَالْبَقْرِ اَوِ الصُّقَارَى وَالْبَقَارَى - فلاں شخص جھوٹ اور مصیبت لایا۔
 اَلْبُقَيْرَى - بچوں کا ایک کھیل۔ اَلْبَقَارُ - گائے والا۔ اس کا چرواہا۔
 اَلْبَاقِرُ وَالْبَاقِرُ وَالْبَقِرُ - گایوں کا گله۔ رِبُوْر - اسم جمع (فتنہ) بَاقِرَةٌ - الفت ملنے والا بڑا صدمہ۔
 اَلْبَقِيرَةُ وَالْبَقِيرُ - عورتوں کا بغیر ستین والا قیص۔ اَنَكْبَا -
 نَاقَهُ بَقِيرٌ - وہ آدمی جس کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا گیا ہو۔
 اَلْبَقْسُ - آس سے مشابہ ایک درخت، جس کی لکڑی کے چھپے بنائے جاتے ہیں۔ واحد بَقْسَةٌ -
 بَقَطَدَن، بَقَطًا - متاعہ۔ سفر کے لیے اپنا سامان جمع کرنا۔ متفرق کرنا۔
 فُلَانًا بُسْتَانًا - کسی کو اپنا باغ تھانی یا چوتھانی پیداوار کی شرط پر دینا۔
 بَقَطَ - فِي الْجَبَلِ - پہاڑ پر چڑھنا۔
 اَلشَّيْءَ - بکھیرنا۔ متفرق کرنا۔
 تَبَقَّطَ - الشَّيْءَ - کسی شے کو ٹھوڑا ٹھوڑا لینا۔ اَلخَبَرُ - ٹھوڑا ٹھوڑا حاصل کرنا





الْبَقْعُ - توڑتے وقت گری ہوئی کھجوریں۔
مترق جماعت۔

البُقَاط - پنیر کا ٹکڑا۔

البُقْطَة - زمین کا ایک حصہ۔

بَقْعَ دَس، بَقْعَا - الطیر - پرندہ کا مختلف

رنگ والا ہونا۔ صفت رَابَقْعَ،

مَوْنُثُ بَقْعَاو - جہ۔ بَقْعَ - فلان

بالشئ کسی کا کسی چیز پر اکتفا کرنا۔

بَقْعَ دَف، بَقْعَا وَبَقْعَ - جانا۔ کہتے ہیں

”مَا أَذْرِي أَيْنَ بَقْعَ“ میں نہیں

جانتا، وہ کہاں چلا گیا۔

بَقْعَ - الثوب - کپڑے کو رنگتے وقت اس

میں سفید سفید داغ چھوڑ دینا۔

تَبَقَّعَتِ الثِّيَابُ - کپڑوں کا بھیگ کر جگہ

جگہ سے گھلا ہونا۔

لَا تَبَقَّعْ - تیز جانا۔

أَبْقَعُ - لونہ - خون یا رنج سے رنگ

متغیر ہونا۔ اُمْتُقِعْ - میم سے فصیح تر

ہے۔

البُقْعَةُ وَالْبُقْعَةُ - قطعہ زمین۔ جہ

بِقَاعٍ وَبُقْعَ - کہتے ہیں: فلان

حَسَنُ الْبُقْعَةِ عِنْدَ الْأَمِيرِ - یعنی

فلان امیر کے حضور میں اچھا مرتبہ

رکھتا ہے۔ وَالْبُقْعَةُ - پانی جمع ہونے

کی جگہ۔ دلدل۔

الْبُقْعِيَّةُ - مختلف درختوں کی جڑوں والی

زمین۔

إِبْنُ بَقِيعٍ - کُتَا۔

الْبَاقِيعَةُ - باقِيعَ کا مؤنث، ایک قسم کا

پزندہ، وہ زہرک شخص جس کو فریب نہ

دیا جاسکے۔ جہ۔ بَوَاقِعَ - کہتے ہیں۔

”مَا فُلَانٌ إِلَّا بَاقِيعَةٌ مِنَ الْبَوَاقِعِ“

فلان بڑا چالاک ہے۔

الْأُبُقْعُ - سیاہ سفید داغوں والا۔ مَوْنُثُ

بَقْعَاو - جہ۔ بَقْعَ - سَنَةِ بَقْعَاو

سبزی و خشک سالی والا سال۔

الْأُبُقْعُ - وہ سال جس میں بارش کم ہو۔

بَقْلٌ دَن، بَقْلًا وَبُقُولًا وَابْقَلٌ - ظاہر

ہونا۔ نابُ البعير - اونٹ کے کیلے

نکلنا۔ المكان - کسی جگہ ترکاری یا

سبزی اگ آنا۔ صفت دَبَا قِل و

بَقْلٌ وَبَقِيلٌ - وجہ الغلام۔

چہرے پر سبزہ نکل آنا۔

بَقْلٌ - لبعیرہ بقلاً - اپنے اونٹ کے لیے

ساگ پات جمع کرنا۔

وَابْقَلُ الْقَوْمُ - لوگوں کا سبزی پانا۔ یا لوگوں

کے مویشیوں کا سبزی چر جانا۔

بَقْلٌ - وجہ الغلام۔ لڑکے کے چہرے

پر سبزہ کا آغاز ہونا۔

تَبَقَّلَ وَابْتَقَلَ - سبزی کی طلب میں نکلنا۔

الْمَايَشِيَّةُ - مویشی کا سبزی چر جانا۔

الْبَقْلُ - سبزی، ترکاری۔ جہ۔ بَقُولٌ و

الْبَقَالُ -

الْبُقْلَةُ - بقل کا واحد۔ بَقْلَةُ الْحَمَقَاءِ

وَبَقْلَةُ الزَّهْرَاءِ وَبَقْلَةُ الدِّينَةِ۔

خرفہ کا ساگ۔

الْبَقْلَةُ الْبَارِدَةُ - عشق بیچہ۔

بَقْلَةُ الْأَنْصَارِ - کرم مکہ۔

الْبَاقِلَاءُ وَالْبَاقِلِيُّ وَالْبَاقِلِيُّ - بویا۔

أَرْضٌ رَبْقَلَةٌ وَرَبْقِلَةٌ وَرَبْقَالَةٌ وَرَبْقَالَةٌ

مَبْقَلَةٌ، سبزی والی زمین۔

الْبَقَالُ - سبزی فروش۔

الْمَبْقَلَةُ - سبزی کی جگہ۔

الْبُقُولُ وَالْبَاقُولُ - بے دستہ والا کوزہ

مٹی کی دوات۔ جہ۔ بَوَاقِيلُ -

بَقْمُ الثَّوْبِ - کپڑے کو بقم سے رنگنا۔

الْبَقْمُ - ایک قسم کی لڑی جو کپڑے رنگنے

میں کام آتی ہے۔

الْبُقْعُ - دھتورا۔

الْبُقَامَةُ - مِنَ الصُّوفِ - کا تنے کے کام

میں نہ آنے والی روئی جو دھتے وقت

گرجاتی ہے، کمزور کم عقل آدمی۔

بَقَادَن، بَقَاوَةٌ وَبَقِيٌّ دَن، بَقِيًّا -

فُلَانًا بَعِيْنًا - کسی کی طرف دیکھنا۔

کسی کا انتظار کرنا۔

بَقِيٌّ دَس، بَقَاوٌ وَبَقِيٌّ دَن، بَقِيًّا - ہمیشہ

رہنہ ثابت رہنا۔

أَبْقَى - علیہ کسی پر رحم کھانا کسی پر مہربانی

کرنا۔ وَرَبْقَى وَتَبَقَّى وَاسْتَبَقَى، ہ

ثابت کرنا۔ باقی رکھنا۔ اسْتَبَقَى -

صنہ - کچھ حصہ چھوڑ دینا۔

تَبَقَّى - بمعنی بَقِيَ۔

الْبَاقِي - فَا - خدائے تعالیٰ کے اسماء حسنی

میں سے ہے۔

الْبَاقِيَّةُ - باقی کا مؤنث۔ جہ الْبَاقِيَّاتِ

وَالْبَوَاقِي -

الْبَقْوَى وَالْبَقْوَى وَالْبُقْيَا وَالْبُقْيَةُ

باقی رہا ہوا باقی ماندہ۔ جہ۔ بَقَايَا -

کہتے ہیں: فُلَانٌ بَقِيَّةٌ قَوْمِهِ فُلَانٌ

اپنی قوم کا چیدہ شخص ہے۔

الْمَبْقَى - بقا۔ زندگی۔ جہ۔ الْمَبَاقِي -

بَكَّةٌ دَن بَكَا - مزاحمت کرنا۔ الشَّيْءُ -

بھاڑنا۔ فسخ کرنا۔ الدَّابَّةُ - جانور کو

چلا کر تھکا دینا۔ بَكََّ الرَّجُلُ - کسی کا

محتاج ہونا

تَبَاكَ - الْقَوْمُ - لوگوں کا بھیڑ کرنا۔ ہجوم کرنا

- الشَّيْءُ - چیز کا تھہر نہ نہ ہونا۔

الْبَاكَ - احمق۔ بے وقوف۔

بَكَّةٌ - مکہ معظمہ۔

بَكْبِكَ وَتَبَكْبِكَ - الْقَوْمُ علیہ - لوگوں

کا کسی پر ہجوم کرنا۔ جہ۔ بَكْبَاكَ - بہت

رجلٌ بَكْبَاكَ - سخت مزاج آدمی۔

بَكَاتٌ دَن، وَبَكُوْتُ دَن، وَبَكُوْتُ دَن

بَكَاءٌ وَبَكَاءٌ وَبَكَاءٌ - النَّاكَةُ

ادنیٰ کا کم دودھ والی ہونا۔ الْبَرْزُ

کنوس کا پانی کم ہونا۔ العین۔ آنکھ کا
آنسو کم نکالنا۔ صفت (بکی و بکیئۃ
وبکی و بکیئۃ) ج۔ بکاء و بکایا۔
آئید بکاء۔ بخشش کر کے دالا یا بخشا۔
بکی (س) بکاء۔ اپنی حاجت نہ پانا۔
آبکاء۔ الدار۔ دودھ کم پانا۔
البکاء و البکاء۔ ایک قسم کی نبات۔ واحد
مبکاء۔

بکئۃ دن، بکئۃ۔ تلوار یا لٹھی سے مارنا۔
دلیل و حجت میں کسی پر غالب آنا۔ کہتے
ہیں "بکئۃ حقیقی آشکئۃ"۔ یعنی
اس پر حجت میں ایسا غالب آیا کہ آخر
اس کو خاموش کر دیا۔
بکئۃ۔ یعنی بکئۃ۔ زجر کرنا۔ سرزنش کرنا۔
جھڑکنا۔ اور اسی سے ہے "تنبکئۃ
الغصیر۔ ضمیر کی جھڑک۔

بکور (س) بکورا۔ الی الشیء۔ جلدی کرنا۔
بکور (دن) بکورا۔ آگے بڑھنا۔ علیہ والیہ
صبح کے وقت کسی کے پاس جانا۔ فی
الشیء۔ صبح سویرے کچھ کرنا۔
آبکور و بکور۔ پیش قدمی کرنا۔ جلدی کرنا۔
فلانا کسی کے پاس صبح سویرے آنا۔
بکورۃ علیہم۔ کسی کو علی الصبح بھیجنا۔
بکور۔ المصلیٰ۔ نماز کے لیے شروع وقت
میں آنا۔

باکورہ۔ کسی کے پاس صبح کے وقت آنا۔
تنبکور۔ پیش قدمی کرنا۔
لبکور۔ کسی چیز کے پہلے حصہ پر قابو پانا
۔ فلانا۔ کسی کے پاس صبح کے وقت
آنا۔ الفاکئۃ۔ پہلا پھل کھانا۔
علی فلان۔ صبح سویرے آنا۔
الباکور۔ فدا آنا ہا بکورا۔ وہ اس کے پاس
صبح سویرے آیا۔

البکور رند کر و مؤنث ہر دو کے لیے ماں
باپ کا پہلا بچہ۔ جوان گائے، کمزوری۔

ہر چیز کا اول۔ ج۔ آبکار۔
البکور۔ ہر وہ فعل جس کے مثل پہلے نہ ہوا
ہو۔ الضرۃ البکور۔ تلوار کی کاری
چوٹ کام تمام کرنے والی چوٹ۔
کرم بکور۔ انکور کا پہلا دانہ۔
نار بکور۔ شروع جلائی ہوئی آگ۔
خل بکور۔ تیز سرکہ۔
الدورۃ البکور۔ دورِ ناسفۃ۔

البکور۔ جوان اونٹ۔ ج۔ آبکور و بکوران
وبکار و بکارۃ۔ مؤنث بکورۃ۔
ج۔ بکار۔
البکورۃ۔ صبح مثلاً آپ کہیں "آتبئۃ
بکورۃ" میں اس کے پاس صبح
سویرے آیا۔

البکورۃ و البکورۃ۔ چرخ۔ ج۔ بکرو
بکرات۔ کہتے ہیں "والبکرات
شورۃ الصائمۃ" یعنی سب سے
بڑی چرخ وہ ہے جو نہ کھوے۔
البکورۃ۔ جماعت، اور اسی سے ہے
"جاؤ علی بکورۃ ابیہم" وہ سب
کے سب آئے۔ ایک بھی نہ بچا۔
البکارۃ۔ دوشیزگی، کنوارا پن۔
البکورۃ و البکورۃ۔ اسم ہے بکور
سے، یعنی اس کی خاصیت اور اس
کے حقوق۔

الباکورۃ۔ پہلا میوہ۔ ہر چیز کا اول۔ ج۔
بواکیر و باکورۃ۔
البکیر و الباکور و البکور۔ ہر چیز اپنے
وقت سے پہلے آنے والی موسم بہار
کی پہلی بارش۔

البکیرۃ۔ پہلے مراد پر پہنچ جانے والا۔
پھل یا درخت خرما۔ ج۔ بکائر۔
المبکیر۔ خا۔ موسم بہار کی پہلی بارش۔
المبکار۔ پہلے تیار ہو جانے والا پھل یا
درخت خرما۔ ارض مبکار۔ جلد لگانے

والی زمین۔ ج۔ مباکیر۔
بکئۃ دن، بکئۃ۔ مغلوب کرنا۔
بکئۃ دن، بکئۃ۔ بدن کے مختلف حصوں
پر سخت چوٹ مارنا۔ بدخلق سے پیش آنا۔
بکئۃ کائنات۔ خاموش کرنا۔ رجل آبکئۃ
ما تھ کٹا آدمی۔

بکئۃ دن، بکئۃ و بکئۃ۔ اشیء۔ ملانا۔
الرجل۔ آٹا۔ ستو۔ گئی یا زیتون ملا کر
کھانا تیار کرنا۔
تبکئۃ۔ فی الکلام۔ گڑبگفتگو کرنا۔ ہ
وعلیہ۔ گالی گلوچ اور مار پیٹ سے
کسی پر غالب آجانا۔ اشیء۔ کسی
چیز کو غنیمت سمجھ کر لینا۔ الرجل۔ کسی
کام میں الحال زندگی بسر کرنا۔ فی مشیہ
ناز سے چلنا۔

ربکئۃ۔ اشیء۔ کسی شے کو غنیمت جان
کر لینا۔

البکئۃ۔ حال، ہیئت، لباس، طبیعت۔ ج۔
بکئۃ۔

البکائۃ و البکئۃ۔ ایک قسم کا کھانا جو آٹا،
ستو، گھی یا روغن زیتون سے تیار کیا
جاتا ہے۔ البکئۃ۔ غنیمت
بکئۃ (س) بکئۃ و بکئۃ۔ گونا گونا ہونا، صفت
د آبکئۃ۔ ج۔ بکئۃ و بکئۃ، ج۔
بکئۃ۔

بکئۃ دن، بکئۃ۔ جان بوجھ کر چپ ہونا۔
تبکئۃ۔ الکلام علیہ۔ بول نہ سکتا۔ گفتگو
نہ کر سکتا۔

بکی (رض) بکاء و بکی۔ رونا۔ صفت
د بک، ج۔ بکاء۔ مؤنث باکیئۃ۔
ج۔ باکیات و بکواک۔

بکی و بکی۔ المیت۔ میت پر رونا۔
بکی و بکی و استبکی۔ الرجل۔ کسی کو
رلانا۔

تبکلی۔ بناوٹی رونا رونا۔ بشکلف رونا۔



وقت۔ علی الصباح۔ والبدجہ
ابروؤں کے درمیان کشادگی۔
البدجہ والبدجہ۔ کشادہ رو بہنس مکہ۔
بدجہ دف، بدجھا۔ الخوی کچھ کا خشک
ہونا۔ تری کا خشک ہوجانا۔ البئر
کنویں کا پانی سوکھ جاتا۔ صفت (بلوچ)
الوجل بالامر کسی کا کسی بات
سے انکار کرنا۔ الغریبہ قرض دار
کا مفلس اور نادار ہونا۔ الرجل
بشهادتہ کسی کا شہادت کو چھپانا
بلوحد بدجہ و تبکجہ۔ ٹھکنا
عاجز ہونا۔ کہتے ہیں "بدجہ و بدجہ
علیٰ" میں نے اس کے پاس کچھ
نہیں پایا۔

آبدجہ۔ النخل۔ درخت خرما پر بچی
کھجوریں نکل آنا۔
بالجہ۔ القوم۔ بلاحتی کے لوگوں سے
جھگڑ کر آنے پر غالب آجانا۔
تبالحا۔ باہم انکار کرنا۔
البالہ۔ وہ زمین جو کچھ نہ اگائے۔ ج

بجوالہر
البدجہ۔ بچی کھجور۔ کھجور شروع میں طلح
کہلاتی ہے پھر خلال پھر بدجہ، پھر
بسر۔ پھر رطب اور پھر نمر۔
البدجہ۔ ایک پرندہ گدھ سے کچھ بڑا۔ ج
بلحان۔

بدجہ دس، بدجھا و تبکجہ۔ تکبر کرنا۔ احمق
ہونا۔ صفت رائبجہ مؤنث بلحاء
و بدجہ و بدجہ۔

البدجہ والبدجہ۔ درخت شاہ بلوط۔
البدجش۔ ایک قسم کا قیمتی جوہر۔
بدجہ دن، بلوحد۔ بالمكان۔ کسی جگہ
اقامت پذیر ہونا یا اس کو شہر بنانا۔
صفت (بالبدجہ) ج۔ بدجہ۔

بدجہ دس، بدجھا، کشادہ ابرو ہونا۔ صفت

دآبدجہ

بدجہ دن، بدجھا و تبکجہ۔ کشادہ رو بہنس مکہ۔
دیکھو و بدجہ۔

بدجہ۔ کمزور رائے والا ہونا اور کم ہمت ہونا
الفرس۔ گھوڑے کا نہ بڑھنا۔

السحابۃ۔ بادل کا نہ بڑھنا۔ الوجہ۔
بخیل ہونا۔ ہ فی اصطلاح البعض

کسی مقام سکونت کی آب و ہوا کا
عادی بنانا اور اسی سے بے حد یقہ

التبلیدۃ یعنی وہ باغیچہ جہاں پر
دلیسی حیوانات و نباتات کو دلیسی جگہ کی
آب و ہوا کا عادی بنایا جائے۔

آبدجہ۔ القوم۔ خرما پریش ہونا۔
آبدجہ البدجہ۔ نہر میں ہمیشہ رکھنا۔

بالجہ۔ تنواریا و تنواریا سے جنگ کرنا۔
تبکجہ۔ کندھوں میں سے سے لٹکانا والا ہونا۔

البدجہ۔ دووں اور سے تالی بنانا۔
البدجہ۔ صبر کا روشن ہونا۔ آشکارا

ہونا۔ القوم۔ دیران جگہ میں آباد
ہونا۔

البدجہ۔ متحیر رہے وقت۔
البدجہ والبدجہ۔ ج۔ بلاذ و بدجہ ان

کوئی جگہ آباد ہو یا غیر آباد۔ والبدجہ
قبر۔ والبدجہ بسینہ کہتے ہیں ہو

واسع البدجہ وہ کشادہ سینے
والا ہے شہر، صبیہ شام میں دمشق۔

عراق میں بصرہ۔
البدجہ ان۔ بصرہ و کوفہ۔

البدجہ والبدجہ۔ ایک قسم کا شیشہ، ایک
قسم کا سفید اور شفاف جوہر۔

تبکجہ و تبکجہ۔ بکور کے مشابہ ہونا۔
البدجہ و طیبی البدجہ۔ مہری مٹی

جو دریا ئے نیل سیلاب کے بعد چھوڑ
جاتا ہے۔

آبدجہ۔ بے خبر ہونا۔ عکین شکستہ دل ہونا۔
من رحمۃ اللہ۔ الشکر رحمت

سے مالوس ہونا۔ فی امر۔ اپنے کسی
کام میں حیران ہونا۔ صفت (بدجہ)

و بدجہ۔
آبدجہ۔ متحیر کر دینا۔

البدجہ۔ بے خبر آدمی۔
البدجہ۔ ٹاٹ۔ بالوں کا بنا ہوا فرش۔

ج۔ بدجہ۔
البدجہ۔ ٹاٹ بیچنے والا۔

البدجہ۔ شیطان کا علم جنس ہے۔ ج
آبدجہ و آبدجہ۔

بدجہ۔ مکروہ چہرے والا ہونا۔ برسام
میں مبتلا ہونا۔

بدجہ و تبکجہ۔ گھبراہٹ سے چپ
ہوجانا۔ و بدجہ۔ مکروہ چہرہ والا

بنادینا۔
البدجہ۔ گوند جیسا ایک مادہ جس سے

زخموں پر لپک کیا جاتا ہے۔
البدجہ۔ برام دیک بیماری کا نام)

البدجہ۔ مسور مسور کے مرنے والا۔
البدجہ۔ ایک درخت سفید پھولوں

والا جس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔
البدجہ۔ بگلا۔

بدجہ۔ فلا تامن مالہ۔ کسی سے
زبردستی مال لے لینا۔

بالبدجہ۔ کسی پر کوہ پڑنا۔
تبکجہ۔ (الشی) کسی چیز کو پوشیدہ طور

سے طلب کرنا۔
تبکجہ الغنم۔ کم دودھ والی ہونا۔

البدجہ۔ ایک قسم کا پرندہ۔ ج۔ بدجہ۔
بدجہ دن، بدجھا و بدجھا۔ الدار

گھر میں پتھر کے چوکوں کا فرش کرنا۔
بدجہ۔ الرجل۔ چلنے میں ٹھکنا۔ بدجہ

أذنتہ۔ گوشہ خالی کرنا۔ کہا جاتا ہے۔

”إِذَا هَاقَصَ بَيْتُكَ قَبْلَ طَلْعِهِ“
جب تمہارا بچہ کے تواس کی گوشمالی کرو۔
أَبْلَطَ - اللبص الرجل - تمام مال چرا
لینا۔ وَأَبْلَطَ - محتاج و فقیر ہونا۔
بَالَطَ وَتَبَالَطَ - القوم - آپس میں تلوار
سے لڑنا۔ وَبَالَطَهُ - چھوڑ کر بھاگ
جانا۔ بَالَطَ فِي أُمُورِهِ - مبالغہ کرنا۔
الْبَلَاط - ہموار اور برابر زمین۔ پتھر کے
چوکے جن سے زمین کا فرش تیار کیا
جاتے، اسی سے ہے ”بَلَاطُ الْمَلِكِ“
بادشاہ کا محل اور محراب مجلس شاہی۔
الْبَلْطُ - لشکر سے بھاگنے والا۔
الْبَلُوط - ایک بڑا درخت ہے، تنہ اس کا
موٹا اور نکڑی اس کی مضبوط ہوتی
ہے۔ بلوط کا پھل - بَلُوطُ الْأَرْضِ -
ایک قسم کی گھاس ہے۔ پتے اس کے
کاسنی کے مشابہ ہوتے ہیں، شاہ بلوط
کستنا۔
الْبُلْطِي - ایک قسم کی مچھلی۔
بَلْطَحَ - زمین پر لیٹ جانا۔ الشئ -
چھوڑ کرنا۔
تَبْلُطَحَ - چھوڑا ہونا۔
بَلَعَ (دَن) بَلْعًا وَابْتَلَعَهُ - الشئ - نگلنا۔
بَلَعَهُ - وَأَبْلَعَهُ - نگلوانا۔ کہتے ہیں بَلَعَهُ
رَيْقَهُ - یعنی اس کو اسی قدر ملت
دی کہ وہ ہتھک نکل لے۔ دَبْلَعَهُ وَ
تَبْلَعَهُ، الشَّيْبُ فِي رَأْسِهِ - اس
کے سر میں بڑھاپے کے آثار (سفید بال)
ظاہر و آشکارا ہوئے۔ وَتَبْلَعَهُ -
گھونٹ لینا۔
الْبُلْعَةُ - چکی کا سوراخ - جہ - بُلْعُ -
الْبُلْعَةُ - بسیار خورد آدمی۔
الْبَلْوَع - بہت نگلنے والا۔
الْبَلْعُ - حلق۔
الْبَلْبَعُ - بسیار خور پیو۔

الْبَلْوَعَةُ وَالْبَلْعَةُ وَالْبَلْوَعَةُ - جہ
بَلْعًا بَلْعًا وَبَلْعًا بَلْعًا - گندلی نالی۔
بدرود۔
بَلْعَمَ اللَّفْقَةَ - لقمہ نگلنا۔
الْبَلْعَمُ وَالْبَلْعُوم - حلق کھانا نگلنے کی نالی
الْبَلْعَم - بہت کھاؤ۔ بربار خور۔
بَلْعَدَن، بَلُوعًا - پہنچنا۔ الشمر - پھل
کا پکتا۔ الغلام - بالغ ہونا۔ صفت
(یا بالغ) مؤنث (بالغة و بالغة)۔
العتة - بیماری کا سخت ہونا۔ کہتے
ہیں ”بَلْعٌ مَتْنِي كَلَامُكَ“ - یعنی
تمہاری گفتگو نے میرے دل پر بہت
گہرا اثر ڈالا۔
بُلْعٌ - مشقت میں مبتلا ہونا
بَلْعَ دَن، بَلْعَةً - فصیح و بلیغ ہونا۔ صفت
بَلِغٌ - جہ - بُلْعَاء۔
بَلْعَهُ وَأَبْلَعَهُ - الید - کسی کو کسی کے
پاس پہنچانا۔ بَلْعَهُ عَنْهُ الرِّسَالَةَ
الی القوم - قوم تک کسی پیغام پہنچانا
بَلْعَ الْفَارِسِ - تیز دوڑنے کے لیے
لگام کو بڑھانا۔
بَالَعٌ - فِي الْأُمُورِ - کوشش و مشقت میں
کوئی کوتاہی نہ چھوڑنا۔
تَبْلَعُ - بالشئ - کسی چیز پر اکتفا کرنا۔
قناعت کرنا۔ بَلِ الْعَتَةُ - بیماری کا
سخت ہو جانا۔
تَبَالَعُ - فِيهِ الْمَرَضُ - بیماری کا انتہا تک
پہنچنا اور شدید شدید ہونا۔ الرجلُ
فِي كَلَامِهِ - تکلف بلاغت ظاہر
کرنا۔ الدباغ فِي الْجِلْدِ - کھال
میں رنگائی کا اچھی طرح سے اثر کرنا
الْبَلْعُ وَالْبَلْعُ - بلیغ۔ انتہا کو پہنچنے والی
چیز۔ کہتے ہیں ”هوَ أَحْمَقُ بَلْعٍ“
وہ بے درجہ کا بیوقوف ہے۔ اسی
طرح ”هِيَ حَمَتَا بَلْعًا“ کہا جاتا

ہے ”أَمْرًا لِّلْبَلْعِ“ - اللہ کا حکم نافذ
ہے۔ ”وَجِيشٌ بَلْعٌ“ - پہنچنے والا لشکر
”رَجُلٌ بَلْعٌ“ - خبیث مرد۔
الْبَلْعَةُ - انتہائی بے وقوفی۔
الْبَلْعَةُ وَالْبَلَاغُ وَالتَّبْلَعُ - صرف
گذرے کی مقدار۔
الْبَلَاغ - پیغام۔ کسی چیز تک پہنچنا۔ کنایت
کتاب جس میں کسی مسئلہ کا حکم بیان کیا
جائے۔ جہ - بَلَاغَات - الْبَلَاغَات
چغل خوریاں۔
الْبَالِغُ - سِنِ بُلُوغٍ تک پہنچنے والا۔ کہتے
ہیں ”غَلَامٌ بَالِغٌ وَجَارِيَةٌ بَالِغَةٌ“
وَبَالِغَةٌ - وَأَمْرًا بَالِغٌ - نافذ حکم۔
الْبَالِغَاء - جانور کے پائے۔
الْبَلَاغِي وَالْبَلَاغِي - دلی بات کو فصیح و
بلیغ عبارت میں بیان کرنے والا۔
الْبَلِغُ - برومٹے جس کو انتہا تک پہنچایا
گیا ہو۔
الْبَلِغُ - روپے پیسے کی مقدار۔ ایک شے
کی حد و مقدار و انتہا۔ جہ - مَبَالِغُ -
التَّبْلِغُ وَالتَّبْلِغَةُ - چھوٹی رسی جسے بڑی
رسی میں باندھیں تاکہ پانی تک پہنچ جائے۔
الْبَلْعَم - قديم اطباء کے نزدیک چار ربونی
اخلاط میں ایک خلط کا نام۔
بَلَقَ (دَن) بَلُوقًا - جلدی کرنا۔ وابلق،
الباب - دروازہ بالکل کھول دینا یا
بھرتی سے بند کر دینا۔
بَلَقَ (دَن) بَلَقَ دَن، بَلَقًا وَابْلَقَ وَ
ابْلَقَ وَابْلَقَ وَابْلَقَ - سیاہ و
سفید داغوں والا ہونا۔ صفت دَابْلَقَ،
مؤنث بَلَقَاء - جہ - بُلُق -
بَلَقَ (دَن) بَلَقًا - تعمیر ہونا۔ ابْلَقَ - الباب
دروازہ کھلنا۔ ابْلَقَ - چلنا۔
الْبَلَق - سنگ مرمر۔ بڑا خمد۔ وابلقة
سیاہی و سفیدی۔



الْبَلَقُ الفود۔ سوال بن عادی کا مشہور قلعہ جو سیاح و سفید پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ ایک ابلق پرندہ جو ملک شام میں ابی بلیق کی کنیت سے مشہور ہے کہا جاتا ہے: طلب الابلق العقوق یعنی اس نے غیر ممکن چیز کو طلب کیا۔ کیونکہ ابلق نر کو اور عقوق حاملہ کو کہتے ہیں۔

الْبَلَوُ وَالْبَلَوَةُ۔ بیابان۔ مطلق۔ روئیدگی نہ اگانے والی قطعہ زمین۔ ج۔ بَلَّاق۔ بَلَّاق۔ بَلَّاق۔ موری۔ بدرو۔

الْبَلَقُ۔ سیاح و سفید داغوں والا۔ بَلَقَ۔ المکان۔ کسی جگہ کا ویران وغیر آباد ہونا۔ صفت بَلَقَ، کہا جاتا ہے: دَا بَلَقَ۔

الْبَلَقُ وَالْبَلَقَةُ۔ ویران و خالی زمین۔ ج۔ بَلَّاقِیۃ۔ (الْبَلَقُ وَالْمَرْأَةُ) الْبَلَقَةُ بہر بھلائی اور خیر سے خالی عورت۔

الْبَلَقِیۃ۔ صاف۔ کہتے ہیں: سَهْمٌ اَوْ سَنَانٌ بَلَقِیۃٌ یعنی صاف پھل والا تیر یا نیزہ۔

بَلَمَ۔ الرجل۔ کسی کی برائی بیان کرنا۔ اُبْلِمْتُ۔ شفتہ اس کے ہونٹ سوجھ گئے۔ صفت اُبْلَمَ۔

الْبَلَمَ۔ ایک قسم کی سمندری چھوٹی مچھلی۔ الْبَلَمَاءُ۔ پورے چاند کی رات۔

بَلَمَ (دس) بَلَمًا و بَلَاہَةً۔ ضعیف العقل کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (اُبْلَمَ) مَوْنَت بَلَمَاءُ۔ ج۔ بُلْمَ۔

اُبْلَمَ۔ الرجل۔ کسی آدمی کو بیوقوف پانا۔ قَبْلَمَ۔ بے وقوف ہونا۔ حجت میں عاجز ہونا۔ (الطریق)۔ بلا رہنمائی و معلومات کے کسی راستہ پر چلنا۔ گم شدہ شے کا

کھوج لگانا۔

بَالَہَ۔ فریب دینا۔

تَبَالَہَ۔ دیدہ و دانستہ بیوقوف بننا۔

بَلَمَ۔ اسم فعل بمعنی چھوڑ۔

بُلْمَہُ نَبِیۃُ الْعِیۃِ۔ زندگی کی فراخی و آسودگی۔

بَلَمَ سَ۔ تیز چلنا۔

بَلَمَصَ۔ خوف سے بھاگنا۔

بَلَوَنَ (بَلَوًا و بَلَاۃً)۔ الرجل۔ کسی کو آزمانا۔ تجربہ کرنا۔ امتحان لینا۔

بَلَمَ دَسَ، بَلَمَ و بَلَاۃً۔ الثوب۔ کپڑے کا پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ صفت (بَلَمَ و بَلَمَ)۔

بَلَمَ تَبْلِیۃً و اَبْلَاۃً بَلَاۃً۔ الثوب۔ بوسیدہ کرنا۔

بَلَمَ مَبَالَاۃً و بَالَہً و بَالًا۔ الامر و بالامر۔ پرواہ کرنا۔

بَالَہَ۔ مقابلہ پر فخر کرنا۔ ایک دوسرے کو کھٹانا۔

اُبْلَمَ۔ فُلَانًا عَذْرَہ کسی کے سامنے عذر پیش کرنا اور اس کا اس عذر کو قبول کر لینا۔ ملامت دور کرنے کے لیے عذر بیان کرنا۔ فی الحرب بَلَاۃً حَسَنًا میدان جنگ میں بہادری و شجاعت ظاہر کرنا۔ ہِیْمِنَا تَسْلِیۃً بخش قسم کھانا۔

تَبَالَہَ۔ کسی کی آزمائش کرنا۔

اُبْلَمَ۔ قسم کھانا۔ ہ۔ آزمانا۔ الشیء۔ پہچاننا۔

اُسْتَبْلَمَ۔ ہ۔ آزمائش کرنا۔

اُبْلَمَ۔ العَشَبُ۔ گھاس کا دانہ ہونا۔

الْبَلَوُ وَالْبَلَاۃُ وَالْبَلَدِیۃُ وَالْبَلَدِیۃُ مصیبت آزمائش۔ ج۔ بَلَاۃً۔

الْبَلَاۃُ۔ غم آزمائش خبر سے بہرہ نثر سے۔

الْبَلَوُ وَالْبَلَمَ۔ پرانا۔ بوسیدہ۔ کہتے ہیں: "هُوَ بَلَوًا سَفَارًا و بَلَمًا" وہ غم

سفر اور تجربوں میں پرانا ہے، یعنی اس نے انہیں چیزوں میں اس قدر عمر گزاری ہے اور نہایت تجربہ کار ہو گیا ہے۔ و بَلَمَ و بَلَمَ۔ یعنی وہ شرمین بنتا ہے اور اس پر غالب۔ ج۔ اَبْلَاۃً۔

الْبَلَمَ۔ وہ افشانی جس کو ایام جاہلیت میں اس کے مالک کی قبر پر باندھ دیا کرتے تھے۔ اور اس کو چارہ پانی کچھ نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ وہیں مر جاتی تھی۔

الْمُبْلِیَّاتِ۔ تابوت میت کے آس پاس ہونے والی عورتیں۔

بَلَمَ۔ حرف تصدیق ہے اور نعرہ دہاں، کے معنی دینا ہے۔ اکثر استفہام کے بعد آتا ہے اور ایجابی معنی کے لیے مخصوص ہے خواہ اس سے پہلے مثبت ہو یا منفی۔ مثلاً اَقَامَ زَبِیدٌ دَکِیۃً کُھڑا ہوا، کے جواب میں "بَلَمَ" کے معنی ہیں "ہاں" یعنی زبید کُھڑا ہوا۔ اور اَمَّا قَامَ زَبِیدٌ دَکِیۃً کُھڑا نہیں، کے جواب میں بھی بَلَمَ کے معنی ایجاب ہی کے ہیں، یعنی ہاں زبید کُھڑا ہوا۔

الْبَلَمَ۔ من العز۔ بہرہ کا موٹا تار۔ یا اس کی موٹی آواز۔ ج۔ بَلَمَ۔

بَلَمَ (دس) بَلَمًا و اَبْلَمَ۔ بالِمکان۔ کسی جگہ رہ پڑنا۔ اقامت پذیر ہونا۔ اَبْلَمَ التَّحَاکُمَ کئی روزا بر کا۔ ہنا۔

بَلَمَ۔ الشَّاقَ۔ بکری کو موٹا کرنے کے لیے باز دھنا۔

تَبَلَمَ۔ جلدی نہ کرنا۔

الْبَلَمَ۔ انگلیوں کے اطراف۔ پورے۔

الْبَلَمَ۔ بنان کا واحد۔ انگلی۔ اوپر کا پورا۔ ج۔ بَلَمَاتِ۔

الْبَلَمَ۔ سرسبز و شاداب باغ۔ ہرا بھرا باغ۔

الْبَلَمَ۔ ایک درخت کا دانہ جس سے قہوہ بنایا جاتا ہے۔





صکان بنق۔ بدودار جگہ۔
 البَنَاقَةُ۔ بواچی بویا بری۔
 البَنَاقَةُ۔ موٹا۔ فربہ۔ دور اندیش، عاقل۔
 بَنَتْ۔ عتہ کی چیز کی خرید و فروخت کرنا۔
 ہ بکذا۔ کسی کو خاموش کر دینا۔
 بَنَجَرَن، بَنَجَا۔ اصل کی طرف لوٹنا۔
 بَنَجَدَ۔ جھنگ پلا کر سلا دینا۔
 البَنَجَر۔ جھنگ۔
 البَنَجَر۔ اصل۔ جڑ۔
 البَنَجَلِشَت۔ لونگ۔
 البَنَجُورَةُ۔ توپ کا دانہ۔ توپ کی نال جہ۔
 بَنَاقُور۔
 البَنَد۔ بڑا جھنڈا۔ جھیل، کتاب کی فصل یا
 اس کا فقرہ۔ قید۔ جلد۔ جہ بُنود۔
 کہتے ہیں ”فَلَاقٌ كَثِيرُ الْبُنُودِ“ فلاں
 بڑا حیلہ ساز ہے۔
 البَنَدَر۔ بندر گاہ۔ ساحلی شہر۔ تاجروں کے
 ٹھہرنے کی جگہ۔ جہ۔ بَنَادِر۔ ایشاء
 بندر۔ تاجروں کا رئیس۔
 بَنَدَق۔ الیہ۔ تیز نظر سے دیکھنا۔
 البَنَدَق۔ بندوق کی گولی۔ ایک درخت
 واحد بندقہ۔ بندق درخت کا پھل۔
 البَنَدَقِيَّة۔ بارود۔ اٹلی کا ایک مشہور شہر۔
 بَنَسَ دس، بَنَسَا و بَنَسَ۔ شر اور برائی
 سے بھاگنا۔
 بَنَسَ۔ عند۔ کسی سے پیچھے ہٹنا۔
 البَنَسَ۔ تھکنی اور بیچ کی انگلی کے
 درمیان والی انگلی۔ جہ۔ بَنَاصِر۔
 درمیان۔
 البَنَفَسَج۔ نفثہ۔
 بَنَقَرَن، بَنَتَا و بَنَقَ و بَنَقَ۔ الیہ۔
 پہنچنا۔
 بَنَقَ۔ الکلام۔ کلام کو جمع کرنا۔ ٹھیک
 اور درست کرنا۔ الکذاب۔ جھوٹ
 گھڑنا۔ بالمکان کسی جگہ اقامت پذیر

ہونا۔ الشیء کسی چیز کا قلابہ ڈالنا۔
 خنجرہ بالسوط۔ پیٹھ کو کورے
 سے زخمی کرنا۔ النفسی۔ قمیص میں
 گریبان لگانا۔
 البَنِيْقَةُ و البَنِيْقَةُ۔ گریبان۔ طریق
 مہنتی۔ کشادہ و فراخ راستہ۔
 البَنُقُوس۔ خربوزہ کا شگوفہ۔ جہ۔ بَنَاقِيس
 بَنَكِت۔ الجَرِيَان۔ دودھ کیور کا اپنے
 اپنے قبیلہ سے نکل کر ایک دوسرے کو
 اپنے قبیلہ کی خبر سننا۔
 بَنَتَتْ۔ بالسناب و فیہ۔ کسی جگہ
 اقامت کرنا۔ فی عَزَّة۔ اپنی عزت
 میں مضبوط ہونا۔
 البُنُك۔ جڑ۔ رات کا کچھ حصہ۔ کہتے ہیں۔
 ”مَضَى بُنُكٌ مِنَ اللَّيْلِ“ رات کا
 کچھ حصہ گزر چکا۔
 البُنُك۔ بینک۔ جہ۔ بُنُوك ہے۔ اس
 کو عربی مَصْرُوف سے۔
 البَنَام۔ پو۔ رات کا پہلا حصہ۔
 بدل دیا گیا ہے،
 بَنَى (رض) بَنَاءً، بَنَاءً، مُنْشَأً و بَنِيَّةً
 و بَنَانِيَّةً۔ البیت۔ گھر تعمیر کرنا۔
 الارض زمین کو آباد کرنا۔ اس میں
 گھر بنانا۔ علی اہلہ و عیالہ۔ یومی کے
 پاس جانا۔ الی جل۔ کسی سے بہتر
 سنو کر۔ الطعام بدلتا ہے
 کا بدن کو فربہ رہا۔ الکلمۃ۔ کلمہ کو
 بنی بنانا۔ علی کلامہ۔ کسی کے کلام
 کی نقل کرنا۔
 بَنَاه تَبْنِيَّةً۔ بنانا۔ تشدید کثرت کے
 لیے ہے۔
 أَبْنَاه۔ بنانا یا مکان دینا یا سامان تعمیر عطا
 کرنا۔ مکان بنانا۔
 بَانَاه۔ تعمیر میں مقابلہ کرنا۔
 تَبْنَى۔ ہ۔ کسی کو بیٹا بنانا۔ متبنی کرنا۔

بنے ہوئے گھر کے مانند ہونا۔ چنانچہ کہتے
 ہیں ”إِذَا جَلَسَتْ تَبْنَتْ“ جب
 بیٹھتی ہے تو گھر کے مانند معلوم ہوتی ہے۔
 رَابَتْنَى۔ بَنَتَا۔ گھر بنانا۔ الرجل۔ بیٹوں
 والا ہونا۔ الرجل۔ احسان و سلوک
 کرنا۔ علی اہلہ و عیالہ۔ یومی کے
 پاس جانا۔
 اُسْتَبْنَى۔ مَسَرَل۔ مکان راکر کرنا۔
 الرجل۔ کسی کا دلہن لانا۔ شادی کرنا۔
 البَنَاءُ۔ مکان۔ عمارت۔ گھر۔ جہ
 أَبْنِيَّة۔ جہ۔ أَبْنِيَات۔ کہا جاتا
 ہے ”بَنَاءٌ عَلَیْہِ۔ اس میں بناء پر
 نصب مفعول نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔
 البَنایۃ۔ مصر۔ شرف۔
 أَبْنِيَّة و البَنِيَّة۔ عمارت۔ جہ۔ بُنَى و
 بُنَى و البَنِيَّة۔ ڈھانچہ۔ جسم کی
 شکل۔ فطرت۔ کہتے ہیں ”فَلَاقٌ صَحِيحُ
 البَنِيَّة“ فلاں صحیح الفطرت شخص
 ہے۔ رَبْنِيَّة الکلمۃ۔ کلمہ کا صیغہ
 اس کا مادہ۔
 البُنَيَان۔ مصر۔ عمارت۔ کہتے ہیں ”كَأَنَّہُمْ
 بُنَيَانٌ مَرْمُوصٌ“ گویا وہ لوگ
 سنگین عمارت کے مانند ہیں۔
 البَاغِي۔ فا۔ جہ۔ بُنَاة۔ مَوْنَت بَانِيَّة۔
 جہ۔ بَوَانِي۔
 البَوَانِي۔ سینہ کی پسلیاں۔ اونٹنی کی
 زینت۔ اسی سے ہے ”بَنَى البیت
 علی بَوَانِيہ“ کہ اس نے گھر کو اس کی
 بنیادوں پر اٹھایا۔
 أَبْنَاءُ مَعَار۔ جہ۔ بَنَاقُون۔
 البَنَانِ۔ بیٹا۔ جہ۔ بَنُون و أَبْنَاء۔ تصغیر
 بُنَى۔ نسبت کے لیے ابْنی و بَنَوی۔
 اصل کے لحاظ سے اور جہزہ وصل ساقط
 کر کے، مَوْنَت رَابَنَة۔ ابْن السبیل
 مسافر۔ کہتے ہیں ”ابْنُ جَلَاوِزِ مشہور

آدمی۔ ابن لیلہا۔ بڑے کام وانا
 آدمی۔ ابن ذکاء۔ صبح۔ ابن
 الطور۔ آواز بارگشت۔ ہوا
 ابن یومہ۔ یعنی وہ ایسا آدمی ہے
 جو آج ہی کی سوچتا ہے کل کی نہیں
 ابن بطنہ۔ یعنی اپنے پیٹ ہی کی
 فکر میں رہنے والا آدمی۔
 الابنم۔ بیٹا۔ میم زائد ہے۔ اولعاب
 میں نون میم کے تابع رہتا ہے۔
 الینت۔ ج۔ کنات۔ لڑکی۔ نسبت کے
 بنتی و بنتوی۔ بنت الشفہ
 کلمہ۔ الارض کنکری۔ الیمین
 قہوہ۔ العین۔ السو۔ الخنقود
 والکرم۔ شراب۔ بنات اللہر
 و بنات طبق۔ سختیاں۔ بنات
 اللیل و بنات الصدر۔ افکار۔
 بنات الارض۔ چھوٹی چھوٹی ندیاں۔
 بنات نعلش الکبریٰ۔ وہ سات
 ستارے جو قطب شمالی کے پاس
 دکھائی دیتے ہیں اور اسی طرح نعلش
 صغریٰ بھی ہیں۔
 بنیات الطریق۔ بڑے راستہ سے
 چھوٹے چھوٹے پھٹنے والے راستے اور
 اسی سے ہے ”دع بنیات الطریق“۔
 یعنی بڑے کام کو سنبھالو اور مکرو
 فریب کو چھوڑو
 المبارنی۔ شرافتیں۔ حروف المبانی۔
 حروف تہجی۔
 البینوۃ۔ فرزندہ۔ بیٹا ہونا۔
 بہاء دن، و بہائی دن و بہو دن،
 بہاء دہماء و بہوۃ۔ بہ۔
 مانوس ہونا۔ لہ۔ سمجھنا۔ کہتے ہیں
 ما بہائت لہ و ما بہت لہ ہیں
 نے اس کو نہیں سمجھا۔
 بہاء دن، بہاء و ابہاء۔ ابیت۔ گھر

کو سامان سے خالی کرنا۔
 ابہاء (بہ) مانوس ہونا۔
 بھت دن، و بھت دن، و بھت۔
 بھت و بھت۔ بگا بکارہ جانا۔ حیرانی
 سے خاموش اور دم بخود ہونا۔
 بھتہ دن، بھتہ۔ کسی کو چانک پکڑ لینا۔
 ہ۔ بھتہ و بھتہ۔ کسی پر ہتان
 لگانا۔ تمت لگانا۔ بھت
 د بھت (ج۔ بھت۔
 بھتہ و باہتہ۔ کسی پر ہتان لگا کر
 اس کو بگا بگا کر دینا۔
 باہتہ الرجل۔ کسی آدمی کا ہتان لگانا۔
 البہیۃ۔ حیرانی۔ د البھت و البھت
 بھوٹ۔ تمت۔
 البھوت۔ وہ جو افتراء و الزام سے سامع کو
 ششدر و حیران کر دے۔ ج۔ بھت۔
 البھت و البھت۔ بھوٹ۔
 البھت۔ پست قد۔ ج۔ بھت۔
 البھتہ۔ جھوٹ۔
 البھتہ۔ جنگلی گائے۔
 بھت دن، بھتہ۔ البہ۔ کشادہ روی
 سے پیش آنا۔
 بھتہ دن، بھتہ۔ خوش کرنا
 مسرور کرنا۔
 بھتہ دن، بھتہ۔ بہ۔ خوش اور مسرور
 ہونا۔ صفت د بھتہ و بھتہ
 بھتہ دن، بہا جہ و بہہ جانا۔ خوب
 صورت ہونا۔ صفت مذکر (بھتہ)
 صفت مؤنث (بھتہ)
 بھتہ۔ خوب صورت بنانا۔
 باہ جہ۔ خوب صورتی میں مقابلہ کرنا۔
 فخر کرنا۔
 آ بھتہ و تبہا جہ۔ امکان کسی جگہ کا
 سرسبز و شاداب ہونا۔
 ابہتہ و تبہتہ و تبہتہ و تبہتہ

بہ۔ خوش اور مسرور ہونا۔ تبہتہ۔
 خوب صورت ہونا۔
 البہتہ۔ خوب صورتی۔ سرسبز و شادابی
 مسرور و خوشی اور یا ظہور خوشی۔
 البہتہ۔ خوش۔ مسرور۔
 البہتہ۔ بلائیں۔ سمنیاں۔
 البہتہ۔ بھوکا بچہ۔
 البہتہ۔ پستان کی جڑ۔
 بھتہ دن، بھتہ۔ غالب آنا۔ فضیلت
 میں سبقت لے جانا۔ فلائہ کسی پر
 ہتان لگانا۔ الحمل فلائہ۔ بوجھ
 کے باعث کسی کا ہانپنے لگانا۔ الرجل۔
 اپنے ہمسروں سے فوقیت لے جانا۔
 القمر۔ چاند کی روشنی کا ستاروں کی
 روشنی پر غالب آنا۔ بھتہ و بھتہ۔
 الشمس۔ سورج کا روشن ہونا۔
 بھتہ و بھتہ۔ سخت دھڑکے سبب
 ہانپنے لگانا۔ صفت (بھتہ و بھتہ)
 و ابہتہ۔ کسی بات کی کوشش میں کوئی
 کسر اٹھانہ رکھنا۔
 باہرہ مہارہ و بھارہ۔ فخر میں
 مقابلہ کرنا۔
 ابہتہ۔ عجیب کام کرنا۔ فقر کے بعد غنی
 ہونا۔ گرمی میں داخل ہونا (بھتہ)
 النہار۔ دن کا بچ۔ متلون الاخلاق
 ہونا۔
 ابہتہ۔ پوری پوری کوشش کرنا۔ بھوتادعویٰ
 کرنا۔ ہ۔ سچا عیب لگانا۔ السیف
 تلوار کے دو ٹکڑے ہونا۔
 ابہتہ اللیل و النہار۔ رات یا دن کا
 آدھا ہونا۔ علیتنا اللیل۔ رات
 کا دراز ہونا۔ و استبہتہ اللیل۔ رات
 کا بہت تاریک ہونا۔
 تبہتہ۔ الٹا۔ برتن کا بھر جانا۔ السحابہ
 بادل کا چمکنا۔



ابن ہر۔ یانینا کہتے ہیں ”جہر آلہ“ اس کے لیے ہلاکت ہو۔

البُھْرَةُ - من السكّان والنّماين - جگہ
اور زمانہ کا وسط۔

البھار - خوبصورتی - ایک خوشبودار پھول -
جس کو عین البقرہ گلے کی آنکھ بھی
کہتے ہیں -

بُھار۔ بُت۔ ابابیل۔ دھنی ہوئی روتی۔
سقیہ۔ مچھلی۔

البھیڑے۔ موٹے سرین والی شریف عورت
ج۔ بھائی۔

الاجھر۔ پیٹھ۔ کہتے ہیں: "فلا تَشْرِيْدِ
الاجھر" یعنی فلاں مضبوط پیٹھ والا
ہے۔ گردن کی شہ رگ۔

وَالْأَجْهَانِ، قلب سے نکلنے والی دو گرہیں
جن سے شرابیں شاخ درشاخ ہو گئی
ہیں۔ اسی سے یہ قول ہے "مَا نَالَ
يُرَاجِعُهُ الْإِلَهُ حَتَّى قُطِعَ أَجْهَوُهُ"
یعنی اس کو دکھ برابر پہنچتا رہا۔ یہاں
تک کہ اس کو ہلاک ہی کر دیا۔

السمور شیر۔
الاباھر۔ پندوں کے وہ پر جو خوانی اور کلی

کے درمیان ہوتے ہیں، پہلے بڑے پروں کو توادم کہتے ہیں، اس کے بعد والوں کو ہٹنا کب، اس کے بعد والوں کو آباہرا دیا، بالکل اخیر والوں کو کلی کہتے ہیں۔ جھڑجھڑ - الیہمآ حق خون باطل کرنا۔

المكان۔ کسی جگہ کو رفاہ عام کے لیے
کرنا۔ بھگت الدیل۔ رہنما کا سیدھے
راستہ سے ہٹ جانا۔

تبھڑج۔ تکبر کرنا۔ الموائع۔ عورت کا
آراستہ ہونا۔ المکان۔ کسی جگہ کی چراگاہ
کارفاد غام کے لیے ہونا۔

الْبَحْرُج - باطل، ردی۔ کہتے ہیں: "لَوْلَوْ
بَهْرُجٌ - موقی ردی ہیں۔ کھوٹا دسم۔

مکانِ بھرچہ - رفاہ عام کی جگہ، قوت کی جگہ۔

تَبْهَمُوسَ - تَبْرَسَ اُکڑتے ہوئے چلنا۔
بَهْرَمَ - بَهْرَمَةُ - شَعْرَه - بالوں کو مَسْنَدِ
سے رَنگنا۔

تَبْخَرَم - مہندی سے سرخ ہونا۔
الْبَهْرَمَة - مصر۔ برہمنوں کی عبادت۔

الْبَهْرَم - ہندی۔
بَہْرَہ (ن)، بَہْرَہْ اَو بَہْرَہْ - سخمی سے
ہشانا - غالب آنا۔

الْمُبْهَمِ سَخِيٍّ مِمَّنْ هُوَ الْوَالِدُ .
بَهْمَسَ رَفَّ بَهْمَسًا - عَلَيْهِ - دِلیری کرنا .

بھٹش الیہ (ف) بھٹشا۔ خوشی سے کسی کی طرف رخ کرنا۔ کسی کا مشتاق ہونا۔

بیدار الیہ۔ لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا
- البکاء۔ رونے کے لیے تیار ہونا

۱۔ عذہ۔ چھان بین کرنا۔
بھٹش و تبھٹش۔ القوم۔ لوگوں کا
جمع ہونا۔

ابہ ہش۔ مصر۔ ترکوگل اور گوگل ایک درخت کا پھل ہے رجل ہش۔ شگفتہ پیشانی والا آدمی۔

بِهَيْصٍ (دس) جَمْصًا - پیسا ہونا۔
الْجَهْصُ - پیس۔

بَحْصَلْ تَبْهَضْ - کپڑے اتار کر جوئے
میں بازی پر لگانا۔ بَحْصَلْ الْقَوْمِ مِنْ
مَالِهِمْ - لگانا۔ علیحدہ کرنا۔

البجھضم۔ بہت سخت۔
بجھظہ، دف، بجھظا و بجھظہ۔ الحمل
او الامور۔ بوجھل کرنا مشقت کا سبب

بنیاء۔ آج حفظ حوضہ۔ حوض بہرنا۔
البابۃ۔ مؤنت۔ مشقت و اذیت کا
سب و باعث۔ مصیبت۔

بَهْجَ (ف) بَهْرًا - الرجلُ يسونا - صفتُ
(بَاهِجٌ)

الْبَهَائِقُ - جھوٹی باتیں۔

بَهْلَقٌ - سختی۔ بلا۔

بَهْمٌ - بالمكان - کیسے اقامت پذیر ہونا

رہ پڑنا۔ الْبَهْمُ - مال سے جدا کر

کے چرانا۔

أَهْمٌ - الباب - دروازہ بند کرنا۔ الامر

چھپانا۔ عَيْنُ الامر - کسی کام سے

بٹانا۔ المكان - کسی جگہ کا بھی گھاس

والی ہونا۔

وَبَهْمٍ وَبِهْتَمَّ - الامر عليه -

مشتبہ ہونا۔ دشوار و مشکل ہونا۔

أَسْتَهْمَ - عليه - شور مچنے کی وجہ سے

گفتگو پر قادر نہ ہونا۔

الْبَهْمُ وَالْبَهْمُ وَالْبَهْمُ - گائے بھڑ بھڑ

کے بچے۔ واحد الْبَهْمَةُ وَالْبَهْمَةُ -

الْبَهْمَةُ - وہ بہادر جس پر کسی ہمسر کا بس نہ

چلے۔ چٹان۔ سخت و مشکل کام۔ ج

بَهْمٌ - الْبَهْمُ - مشکل امور۔

الْبَهْمِي - جو کی مانند ایک قسم کی نبات۔

الْبَهْمِي - سیاہ۔ کالا۔ فرس بھیم۔

یک رنگ گھوڑا۔ لیل بھیم۔ ساری

تاریک رات۔ ج۔ بَهْمٌ وَبَهْمٌ -

الْبَهْمِيَّة - ہر چوپایہ خشکی و تری کا علاوہ درندوں

اور پرندوں کے۔ ج۔ بَهَائِمٌ -

الْبَهْمِيَّة - برودہ جس میں قوت گویائی نہ ہو۔

الْأَهْمُ - گونگا۔ ج۔ بَهْمٌ -

الْأَهْمُ - انگوٹھا۔ مونٹ۔ کبھی مذکر بھی

مستعمل ہوتا ہے۔ ج۔ أَبَاهُمُ و

أَبَاهِيْمُ -

الْمُبْهَمُ - مفعول۔ امرٌ مَبْهَمٌ - انجان بات

کلامٌ مَبْهَمٌ - غیر معروف کلام۔ طریق

مَبْهَمٌ - بے دیکھا بھال راستہ۔

حَالِظٌ مَبْهَمٌ - وہ دیوار جس میں

دروازہ نہ ہو۔

بَهْنٌ (رس) بَهْنًا - بہت خوش ہونا۔

الْبَهْنَانَةُ - اچھی طبیعت کی عورت۔ گفتگو میں

نرم۔

تَبَهَّنَسَ - ناز و انداز سے چلنا۔ اتر کر چلنا۔

الْبَهْنَسُ - بشیر۔

بَهَادِنٌ (رس) وَبَهْوَرُكٌ - بَهَاءٌ -

حسین و خوش شکل ہونا۔ ظریف ہونا۔

صفت (رس) مَوْنُثٌ - بَهِيَّةٌ - بَھَاہ

خوبصورتی میں غالب آنا۔

بَهِيَّ (رس) بَهِيٌّ - البَيْتُ - ویران ہونا۔

خالی ہونا۔

بَهِيٌّ - البَيْتُ - گھر کو کشادہ کرنا۔

بَاهَاةٌ - فِي الْحُسْنِ - حسن و خوبی میں

کسی پر فخر کرنا۔

أَبْهَى - خوبصورت چہرہ والا ہونا۔ الاناء

برتن خالی کرنا۔ الخيل - گھوڑے کو

جنگ کے کام میں نہ لینا۔

أَبْهَى - بہ - فخر کرنا۔

تَبَاهَوْا - باہم فخر کرنا۔

الْبَهْوُ - گھروں اور خیموں کے سامنے کا وہ

مکان جو مسافروں اور مہمانوں کی فرودگاہ

ہو۔ ملاقات کا گھر۔ ج۔ أَبْهَاءٌ و

بَهْوٌ وَبُهَيٌّ -

بَاءٌ يَبْوُ بَوَاءً - الیہ - لوٹنا۔ بَاءٌ

وَبَاءٌ بہ - لوٹنا۔ بالحق او

بالذنب - اقرار کرنا۔ فُلَانٌ بَفُلَانٍ

بَوَاءٌ - بدلہ میں قتل کیا جانا۔ کہتے

ہیں "دُمُ بَوَاءَ دِمٌ" خون، خون

کے برابر۔ بَوَاءٌ بہ - یعنی ان میں سے

ہو جا جو اس کے عوض میں مارے

جائیں گے اور مہلک کا کلام بچر کے

لیے اسی سے ہے۔ بَوَاءٌ بِشَيْءٍ

نعل کلیب - یعنی کلیب کے جوتے

کے تسمکے برابر ہو جا۔

بَوَاءٌ - المكان - کسی جگہ اترنا۔ ٹھہرنا۔

الرُّمْمَةُ نحوه - نیزہ کسی کی طرف

سیدھا کرنا۔ تاننا۔

بَوَاءٌ وَبَوَاءٌ كَهْمَزًا - اس نے اس

کے رہنے کے لیے مکان تیار کیا۔

أَبَاءٌ - مِنْهُ - بھاگنا۔ بالمكان - اقامت

کرنا۔ الشئ و بالشئ الیہ و علیہ

لوٹنا۔ کوئی چیز واپس کرنا۔ مَنَزَلًا

وَفِي الْمَنْزِلِ - گھر میں اترنا۔

القاتل بالقتيل - مقتول کے بدلہ

میں قاتل کو قتل کرنا۔

تَبَوَّأَ - المكان و بہ - کسی جگہ اقامت

اختیار کرنا۔

تَبَاهَوْا - الشَّيْئَانِ - دو چیزوں کا مساوی ہونا

لَا سُبَّاءَ - الْمَنْزِلِ - کسی مکان میں اقامت

پذیر ہونا۔ الْقَاتِلُ بِالْقَتِيلِ - قاتل

کو مقتول کے عوض قتل کرنا۔

الْبَاءَةُ وَالْبَيْئَةُ وَالْمَبِئَةُ وَالْمَبِئَةُ

گھر مکان امرائے۔

الْبَيْئَةُ - حالت کہتے ہیں "إِنَّهُ حَسَنُ

الْبَيْئَةِ" وہ اچھی حالت والا ہے۔

حاجة مَبِئَةٍ - حاجت سخت و

شدید۔

بَابٌ (ن) بَوَّيَا - لہ - کسی کا دربان ہونا۔

بَوَّيٌ - الْكِتَابُ - کتاب کو ابواب پر

تقسیم کرنا۔

تَبَوَّيٌ - الرَّجُلُ - کسی کو دربان بنانا۔

الْبَابُ - دروازہ - مِنَ الْكِتَابِ - کتاب

کا باب۔ ج۔ أَبْوَابٌ وَبُيُوتَانِ -

الْبَابَةُ - فِي الْحِسَابِ وَالْحُدُودِ - غایت

انتہا، شرط، قسم، عادت۔ کہتے ہیں۔

"هَذَا شَيْءٌ مِنْ بَابَتِكَ" یہ چیز

تھارے لیے موزوں و مناسب ہے۔

ج۔ بَابَاتٌ - بَابَاتُ الْكِتَابِ -

کتاب کی سطریں۔

الْبَوَّابُ - دربان - الْبَوَّابَةُ - پیشہ درباری۔

دربانی کی اُجرت۔





البوت۔ ایک پہاڑی گھاس ہے۔

البوتقة والبودقة۔ کٹھالی۔

بات دن، بوشا و آباث و ابثاث۔ الشی

وعین الشی۔ بحث کرنا۔ کھود کرید

کرنا۔

بات المكان۔ کوئی جگہ کھود کر مٹی ملانا۔

بات التراب۔ مٹی کو متفرق کرنا۔

بات التراب۔ راکھ بکھیرنا۔

استبات۔ التراب۔ مٹی نکالنا۔ کہتے

ہیں "ترك دارهم حوث بوث"

یعنی ان کے گھروں کو جو پاؤں کے

کھروں اور پاؤں سے کھدوا کر ویران و

خراب کر دیا۔

بایہ دن، بوجا۔ الشی فلانا۔ کسی پر

مصیبت آپڑنا۔ گرنا۔ نازل ہونا۔

البوق۔ بکلی کا چکنا۔ البعیر

اونٹ کا ٹھکنا۔

انباہ و تبوہ۔ البوق۔ بکلی کا چکنا۔

انباہت علیہ۔ الدواہی۔

کا ٹوٹ پڑنا۔

الباج۔ دیکھئے لفظ باج۔

الباجۃ۔ اختلاط۔

البایجہ۔ ران کی ایک رگ کا نام۔ ج

بواہج۔

البایجۃ۔ مصیبت۔ ج۔ بواہج۔

البایجۃ۔ کشادہ ریگستان۔

بایہ دن، بوحا و بوحا و بوحۃ۔

الشی۔ کسی شے کا ظاہر ہونا۔ البیہ

بالسر۔ کسی کے سامنے بھیڑنا ہر کرنا۔

آبایہ۔ البیہ۔ بھیڑنا ہر کرنا۔ کھولنا۔

شیدنا۔ کوئی چیز جائز ٹھہرانا۔

الاباحی۔ وہ جو اپنے اور دوسروں کے

لیے معاصی کے ارتکاب کو جائز اور

مامورات کے ترک کو روار کھے۔

استباح۔ الشی۔ کسی چیز کو مباح بنانا

یا شمار کرنا۔ کسی پر اقدام کرنا۔ القوم

قوم کی بیخ کنی کرنا۔

الاباحی۔ ممنوعات کو کرنے اور مامورات کو

چھوڑنے کی اجازت دینے والا۔

الباحۃ۔ پانی یا اس کی بڑی مقدار۔

نخلستان، گھر کا صحن۔ آنگن۔

باحۃ الطریق۔ راستہ کا بیچ۔ ج۔ بوحہ۔

البواہج۔ کھلم کھلا۔ آشکارا۔ کہتے ہیں۔

"فعلہ بواہجاً" اس نے اس کو

کھلم کھلا کیا۔

بوحک۔ کلمہ ترحم ہے۔

البوہج۔ دل کی باتوں کو کھول کر رکھ دینے والا۔

البوہجی۔ بچھاڑنا۔ کہتے ہیں "تو کیم بوہج"

بوحہ۔ آفتاب کے لیے صم ہے۔

البیاحۃ۔ مچھلی کا جال۔

المیہجہ۔ جائز بڑانے والا۔ بشیر۔

المیہجہ۔ جائز۔ روا۔

راہۃ۔ بوحا۔ ٹھکنا۔ کہتے ہیں "عذا

الحر والعضب والنار حرارت

کا سرد ہونا۔ غصہ کا فرد ہونا۔ آگ کا

بھجنا۔ بوحا۔ اللہ کی گوشت

کا خراب ہونا۔

آبایہ۔ النار۔ آگ بچھا دینا اور اسی سے

ہے یہ کلام "انجو عنک الظہیرۃ"

اس قدر ٹھہر کہ دوپہر کی گرمی کم ہو جائے۔

باد دن، بودا۔ ظاہر کرنا۔

البود۔ کنواں۔

باد یود بودا۔ محتاج ہونا متواضع ہونا

بار دن، بودا و بوار۔ ہلاک ہونا۔

السوق او السلعة۔ کساد بازاری

ہونا۔ العمل۔ باطل ہونا۔ الارض

زمین کا بے کاشت کے رہنا۔ وبتار

الرجل۔ تجربہ کرنا۔ آزمانا۔

بور۔ الارض۔ زمین کو غیر مزروعہ چھوڑنا۔

آبارہ۔ ہلاک ہونا۔

تمیور۔ نفسہ۔ اپنی جان ہلاکت کے باعث

نوحہ کرنا۔

البایر۔ بے کاشت کی زمین۔ غیر مزروعہ

زمین۔ ج۔ بور۔ کہتے ہیں "حایر"

بایر۔ یعنی نہ کسی مرشد کی اطاعت کرتا

ہے نہ کسی چیز کی طرف توجہ دیتا ہے۔

البور۔ ہلاک ہونے والا ہے۔ غیر مستعمل

"امراۃ بور و قوم بور" ہلاک

ہونے والی عورت یا قوم۔ رنڈ کروٹ

واحد جمع کے لیے کوئی فرق نہیں)۔

البور من الارض۔ غیر مزروعہ زمین۔

کاشت سے خالی زمین۔

البور۔ غیر مزروعہ خراب زمین۔ آزمائش

ہلاکت، کساد بازاری۔

البوار۔ ہلاکت۔ کساد بازاری۔ دار

البوار۔ جہنم۔

البورق۔ سہاگا۔ سوڈا۔

البوریق۔ دریائی مچھلی کی ایک قسم۔

البوریقۃ و البوریاء۔ چٹائی۔ بزاری۔

چٹائی پیچنے والا۔

الباز۔ باز۔ جو ایک شکاری پرندہ ہے۔ ج۔

بیزان و ابوان۔

البوز و البوزۃ۔ دودھ اور شکر کی حوائی

ہوئی برت۔ آئیں کریم۔

باسہ دن، بوسا۔ بوسہ لینا۔

البوسیر۔ بوسہ لینا۔

البوسیطۃ۔ ڈاک خانہ۔

باش دن، بوشا و بوش و تبوش۔

القوم۔ بل جل کر شور مچانا۔

البوش و البوش۔ مخلوط گروہ شور کرنے

والی جماعت۔ کہتے ہیں "تو کھم

ھوشا بوشا" یعنی اس نے ان کو

مخلوط چھوڑ دیا۔ او باش اسی کی جمع

مقلوب ہے۔

البُوشَى وَالبُوشَى - ہت بال بچے رکھنے والا۔ محتاج۔

باصدہ دن، بومنا۔ پیش قدمی کرنا۔ آگے بڑھنا۔ منہ۔ کسی سے بھاگ کر پوچھنا۔

فی الامور۔ اصرار کرنا۔

بوص۔ میدان میں سبقت لے جانا۔ الشئ۔ کسی چیز کا صاف رنگ والا ہونا۔

انباص۔ منقبض ہونا۔ سکڑنا۔

البوص۔ دوری۔ والبوص۔ رنگ و صورت۔ شکل۔ چوڑ۔ ریشم یا کتان۔

جو۔ ابواص۔ ایک قسم کی کشتی۔

طریق بائص۔ لمبا راستہ۔ دو کا راستہ۔

باص دن، بومنا۔ جھائیاں پڑنے کے بعد خوشرو ہونا۔ بالہکان۔ کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔

باط دن، بوطا۔ امیری کے بعد غریبی یا عزت کے بعد ذلت ملنا۔

البوصہ۔ کھائی۔ کپڑے وغیرہ کی گول گل کاری۔ جو۔ بوط۔

باط دن، بوطا۔ لاغری کے بعد موٹا ہونا۔

باع دن، بوعا۔ بخشش دینے کے لیے ہاتھ پھیلانا۔ الفرس۔ گھوڑے کا لیے لیے قدم رکھنا۔

وتبوع۔ الجبل۔ دونوں ہاتھوں کو لیے کر کے سی کونا پنا۔

باع وتبوع۔ للمساعی۔ باع پھیلاتا۔

انباغ۔ العرق۔ پسینہ بہہ پڑنا۔ الحیة۔ سانپ کا اپنے بدن کو جھٹ کے لیے پھیلاتا۔ الشجاع۔ من الصف۔ بہادر کا صف سے نکلنا۔ ظاہر ہونا۔

الوجل الیہ۔ کشادہ روئی سے بڑھنا۔ انباغ لہ فی البغناعة۔ نیچے وقت قیمت میں رعایت برتنا۔

الباغ۔ دونوں بازوؤں کے پھیلانے کی

مقدار جو تقریباً ۶ فٹ ہوتی ہے۔ کتے

پس۔ طویل الباع ورجب الباع۔

بخل۔ عاجز۔ جو۔ ابواع و باعات دربعان۔

البوع۔ مصر۔ بمعنی باع۔

البوع۔ پاؤں کے انگوٹھے کے پاس کی ہڈی۔ دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کی

مقدار۔ اسی سے یہ مثل ہے۔ لا یعوف کو عہد من بوعہ۔ یعنی وہ بالکل ہی بیوقوف و جاہل ہے۔

باعۃ الدار۔ گھر کا صحن۔

البیت۔ دور دور قدم رکھنے والا۔ کتے

پس۔ فرس بیت۔ دور دور قدم رکھنے والا گھوڑا۔

بوعاء الطیب۔ خوشبو کی مہک۔

باعہ دن، بوعا۔ غالب آنا۔ برابر ہونا۔

کسا جاتا ہے۔ لائک لعالحد لا

تباع۔ یعنی تم ایسے عالم ہو جس کا کوئی مقابل و ہمسر نہیں۔

تبوع۔ الدم بہ۔ خون کا جوش کھانا۔

فلانا علیہ۔ کسی پر غالب آجانا۔

البوعاء۔ گرد و غبار۔ بوعاء الطیب خوشبو کی مہک۔

باق دن، بوقا و بوقا۔ شر اور جھگڑا اٹھانا۔ القوم۔ بے وفائی کرنا۔ دغا

کرنا۔ چوری کرنا۔

باقیت الباقیة القوم۔ قوم کو مصیبت پہنچنا۔

باق القوم علیہ۔ جمع ہو کر کسی کو ظمًا قتل کرنا۔

باقیة السفینة۔ کشتی کا ڈوبنا۔ باقی

الشئ۔ غالب ہونا۔ ظاہر ہونا۔ خراب ہونا۔

بوق۔ فی البوق۔ بگل بجانا۔

تبوق۔ جھوٹ بولنا۔ الوباء فی الماشیة

موشی میں وباء پھیلنا۔

انباق۔ علیہم الشئ۔ شر اور برائی پہنچنا۔

بہ۔ کسی پر ظم کرنا۔

البوق۔ بگل۔ ترھی۔ نرسنگا۔ جو۔ ابواق و بیقان و بوقان۔ کتے میں بجاؤ

بالبوق و نفخ فی البوق۔ ڈنگے کی چوٹ اعلان کرنا۔ بے ہودہ اور فضول بکنا۔

البوقہ۔ بارش کی سخت بوچھاڑ۔ جو۔ بوق۔ الباقیہ۔ گلر سنہ۔ سبزی کا مٹھا۔ جو۔ باقات الباقی۔ من المتاع۔ بے قیمت سامان۔

کتے میں۔ متاع باقی۔ یعنی بے قیمت سامان۔

الباقیہ۔ مصیبت شر اور برائی۔ کتے میں۔

”رکعت عنک بائقة فلاں“ یعنی میں نے تجھ سے فلاں کی لائی ہوئی مصیبت کوٹال دیا۔ جو۔ بواقی۔

البواق۔ بگل بجانے والا۔

المبوق۔ باطل کلام۔

البوقیصاء۔ ایک قسم کا درخت۔

باك دن، بوکا۔ المتاع۔ بیچنا یا خریدنا۔ الامر۔ کسی معاملہ کا مخلوط ہونا۔ القوم رایہم۔ اختلاف آراء کی وجہ سے کسی نتیجہ پر نہ پہنچنا۔ العجل۔ کسی سے مزاحم ہونا۔

انباک۔ علیہ الامر۔ کسی پر کوئی کام مشتبہ ہونا۔

بال دن، بولا و مبالا۔ پیشاب کرنا۔

بولکہ و ابالہ۔ پیشاب کرنا۔

البال۔ دل۔ کتے میں۔ ماخطر الامر۔

بیالی۔ یہ بات میرے دل میں نہیں کھٹکی۔ حال۔ کتے میں۔ فلاں رخی۔

البال۔ فلاں آسودہ حال ہے۔ فلاں۔

کاسف البال۔ فلاں بُرے حال والا ہے جس چیز کا اہتمام کیا جائے۔ کتے میں۔





”لیس هذا من بآلی“ یعنی یہ وہ چیز
نہیں جس کی میں پرواہ کروں ”امو
ذو بال“ ایک متم بالشان کام۔
”ما بالک“ تمہاری کیا حالت ہے۔
البال۔ دہل بھلی۔
البالة۔ شیشی۔ خوشبو کی ڈبیہ۔
البول۔ پیشاب۔
البول۔ لڑکا۔
البولة۔ لڑکی۔
بول العجوز۔ شراب۔
البوال۔ ایک بیماری جس میں پیشاب
بکثرت آتا ہے۔
البولة۔ بہت پیشاب کرنے والا۔
المبولة۔ وہ چیز جو پیشاب لانے کا سبب ہو
المبولة۔ پیشاب کرنے کا برتن۔ ہاشتی۔
البوليصۃ او البوليصۃ۔ رسید۔ ہنڈی
جو۔ بکوالیص۔
البولیس۔ پولیس۔ اس کی عربی شمرطی
یا جلواز ہے۔ جو۔ شمرط۔
البوم واليومۃ۔ اُتوردن کروٹ ہر دو
کے لیے متعل ہیں، جو۔ ابوام۔
بآئہ دن، بوٹا۔ فضل و زیادتی میں غالب
آنا۔
البون والبون۔ دوری فضل۔ دو چیزوں کا
آپس میں فرق۔ یا دو چیزوں کے درمیان
کی مسافت۔
البونۃ۔ چھوٹی بچی۔
البان۔ ایک قسم کا درخت ہے۔ پتے اس کے
بید کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں، اس کے
بیج سے خوشبودار تیل نکالا جاتا ہے۔
واحد اس کا بانۃ ہے اس کی دراری کے
باعث قد کو اسی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔
البوان والبون خیمہ کھڑا کرنے کا ستون
جو۔ ابونۃ و بون و بون۔
بآہ دفن، بوٹھا۔ لاشی۔ سمجھنا کہتے

ہیں۔ مَلَبَحْتُ وَمَا بَحْتُ لِلَامرۃ۔
میں نے معاملہ کو نہیں سمجھا۔ بآہۃ
الدار۔ گھر کا صحن۔ آنکھ۔
البوہۃ۔ مونث (البوہ) اُلو۔ یا اُلو کے
مسابہ کوئی پرندہ۔ بے وقوف شخص۔
دوات میں ڈالنے کی دھنکی ہوئی خشک
اون۔ جب سیاہی سے تر ہو جائے تو
وہ لیقۃ ہے۔
البو۔ اونٹنی کا بچہ۔ بھس یا گھاس بھری
ہوئی اونٹنی کے بچہ کی کھال جس کو اونٹنی
کے سامنے کر کے اس کا دودھ دہستے
ہیں۔
بوی یبوی بیٹا۔ اپنے فعل میں دوسرے
کی نقل اتارنا
البوی تقلید، نقل، امید، طبیعت، الم،
نفرت۔
البیب۔ نایدان۔ حوض کی نالی۔
البیباب۔ سقمہ جو لوگوں کو پانی پلاتا پھرے۔
بات (رض س) بیٹا و بیٹا و بیٹوتۃ و
مہیتا و مہیتا۔ فی المکان۔ کسی جگہ
شب باشی کرنا۔ رات گزارنا۔ فلاٹا
وبہ و عندہ۔ کسی کے پاس رات
کے وقت آنا۔ یا رات ہو جانا کہتے ہیں
”بات یفعل کذا“ جب کوئی رات
میں کچھ کام کرے جس طرح دن میں کام
کرنے والے کے لیے کہتے ہیں۔ ”ظل
یفعل کذا“۔
بات یبیت بیٹا۔ الرجل۔ نکاح کرنا۔
الرجل۔ نکاح کرنا۔
بیٹ۔ الشی۔ رات میں کچھ کرنا یا سوچ
بچا کرنا۔ العدو۔ شب خون مارنا۔
البیت۔ گھر بنانا۔ راہ۔ اپنی
رائے پر بوقت شب سوچ بچا کرنا۔
بیٹ۔ الشی۔ کسی شے کا اندازہ کیا جانا۔
آباتہ۔ رات گزارنے دینا۔ شب باشی

کرنا۔ کہتے ہیں۔ آیاتہ اللہ احسن
بیۃ۔ بمعنی آباتہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ
اس کو اچھا کہے۔
استبات۔ رات کی خوراک مہیا کرنا۔
البیت۔ جو۔ بیوت و آبیات۔ وجہ۔
بیوتات و آبیات۔ بعض کہتے ہیں کہ
بیوتات اور آبیات اشرف کے لیے
مخصوص ہے، اس کی تصغیر بیوت ہے۔
گھر، مکان، شرافت۔ بیت الرجل۔
آدمی کے اہل و عیال۔ بیت الشعر۔
دو مصرعوں سے مرکب منظوم کلام۔ بیت
الفصیدۃ۔ قصیدہ کا چیدہ شعر۔ یا
شاعر کی غرض کو ظاہر کرنے والا شعر۔
بیٹ المقدس یا البیت المقدس
ملک شام میں ایک پرانا مقدس شہر بیت
المال۔ حکومت اسلامیہ کا خزانہ۔
بیت العنکبوت۔ مٹی کا جالا۔
البیت العتیق و البیت المحرام۔ کعبہ
شریف۔ کہتے ہیں۔ ہو جاری بیت
بیت۔ وہ میرا لیا پڑوسی ہے کہ اس کا
گھر میرے گھر سے ملا ہوا ہے
البیات۔ شب خون مارنا۔
البیت البیتۃ۔ خوراک، روزی۔ کہتے
ہیں۔ لے بیٹۃ کیلئے۔ یعنی اس کے پاس
صرف ایک رات کی خوراک ہے۔
البایۃ و البیوت۔ رات گزارنا ہوا پانی۔ پانی
یا دودھ جو سرد ہو گیا ہو کہتے ہیں اسقنی
من بیوت السقاء۔ یعنی مجھ کو رات کا
دو ہوا مشیکہ میں رکھا ہوا سرد دودھ
پلاؤ۔ بیوت، وہ معاملہ بھی کہلاتا ہے
جس پر صاحب معاملہ رات پر غور و خوض
سوچ بچا کرتا رہا ہو۔
البیوت۔ ایسا معاملہ جس کی وجہ سے صاحب
معاملہ رات سوچ بچا رہے گذارے۔
سین بیوتۃ۔ مضبوط دانٹ۔

کر قیمت دینا (خریدنا) صفت (بائع) جو
 باعہ صفت مفعولی۔ (مُبیع)
 بَايَعَهُ مُبَايَعَةً کسی سے خرید و فروخت کا
 معاملہ کرنا۔ باہم معاہدہ کرنا۔ کہتے ہیں
 "بايعوه بالخلافة و بُويع له با
 لخلافة" لوگوں نے اس کی خلافت پر
 بیعت کی۔ لوگوں نے اس کی خلافت کو
 مان لیا اور تسلیم کر لیا۔
 أَبَاعَ - الشئُ چیز کو فروختگی کے لیے پیش کرنا۔
 تَبَايَعَا - باہم خرید و فروخت کرنا۔
 ابْتَاعَ - الشئُ خریدنا۔
 انْبَاعَ - الشئُ خرچ ہونا۔ فروخت ہونا۔
 اسْتَبَاعَ - کسی سے کچھ کھانا۔
 الْبَيْعُ - فروختگی۔ خرید۔
 الْبَيْعَةُ - عہد و پیمان۔
 الْبَيْعَةُ - کلیسا، گرجا، یہودیوں کا عبادت خانہ
 جو بیع و بیعات و بیعات۔
 الْهَيْعَةُ - بیچنے کا سامان۔ اسباب فروختگی۔
 جو بیعات۔
 الْبَيْعُ وَالْبَيْعُ - بیچنے والا۔ خریدار۔
 بَاعَ يَبِيعُ بَيْعًا وَتَبِيعَ - الدم - خون کا
 جوش مارنا
 الْبَيْعَةُ - ایک قسم کی گھاس کا نام ہے
 بَيْقُو - جھکنا۔ ہلاک ہونا۔ سر جھکا کر جلدی

جلدی چلنا۔ نامعلوم جگہ کی طرف جانا۔ فی
 مالد، اپنے مال کو تیزی سے اڑا ڈالنا۔
 برہادر کرنا۔ الدار - گھر میں اترنا۔
 الْبَيْقُو بے فیض آدمی۔ بے خبر شخص۔
 البیکار - پرکار۔
 الْبَيْلَسَانُ وَالْبَيْلَسَانُ - ایک قسم کا درخت ہے
 جس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔
 البیمارستان و المارستان شفا خانہ، ہسپتال
 اس کے لیے عربی لفظ مُسْتَشْفٰی ہے۔
 بَاتَ دَضَ، بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنُونَةً ظاہر ہونا
 واضح ہونا۔ صفت (بیتن و بائین) جو
 آبیماء و بینما و آبیکان۔
 آبان - الشئُ واضح کرنا۔ ظاہر کرنا۔ کاٹنا۔ جدا
 کرنا۔ الشئُ واضح ہونا۔ صفت (مُبین)
 کہتے ہیں "صَوْبَهُ قَابَانِ رَاسَهُ مِنْ
 جَسَدِهِ" یعنی اس نے اس کو مار مار کر اس
 کے سر کو تن سے جدا کیا۔
 بَيَّنَ - الشئُ واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔ الشجرُ
 درخت کا پتے لانا۔ الشئُ کسی شے کو ظاہر کرنا
 واضح کرنا۔ البنت - لڑکی کا نکاح کرنا۔
 بَايَنَهُ - چھوڑ کر جدا ہونا۔ تبیتن - الشئُ واضح
 کرنا۔ غور و تامل کرنا۔
 تَبَايَنَا - ایک دوسرے کو چھوڑنا، ایک دوسرے سے
 دور ہونا۔ تباین الشیثان - باہم متفاوت ہونا

الْمُسْتَبَانَ - الشئُ واضح ہونا۔ الشئُ کسی
 شے کی وضاحت چاہنا
 بَيَّنَّ - طرف یعنی وسط درمیان۔ بَيْنَ بَيْنَ - دونوں
 کچے مٹی پر فتح ہیں، اچھے اور برے کے درمیان
 کہتے ہیں "بَيْنَا وَبَيْنَمَا نَحْنُ نَضْرِبُ" یعنی
 بین اوقاتِ مَظْنُونَا - گویا اللہ یا ماکو
 اوقات کے عوض میں لاتے ہیں۔
 الْبَيْنُ - جدائی، وصل، کہتے ہیں "تَقَطَّعَ
 بَيْنَهُمَا" ان کے میل ملاپ میں فصل واقع
 ہو گیا، ان کا آپس کا تعلق ٹوٹ گیا۔ خات
 الْبَيْنُ - نسب، قرابت، دوستی، عداوت
 فساد کہتے ہیں "سَعَى فِي اصْلَاحِ ذَاتِ
 بَيْنِهِ" یعنی ان کے حالات کی اصلاح
 میں کوشش کی۔
 الْبَيْنُ - کوئہ، گوشہ، دوزمینوں کے درمیان کا فاصلہ
 حد نظر تک زمین کا ٹکڑا۔ جو - بیون - ترکی
 زبان میں بین کے معنی ہزار کے ہیں چنانچہ
 بین باشی کے معنی ہیں، ہزار کا موار۔
 الْبَيَانُ - مضمون فصیح گفتگو جو مافی الضمیر کو ظاہر کرے
 الْبَارِئَةُ - الہائیں کا مونت۔ دہن کا جھیز۔
 الْبَارِئَةُ - گراکنواں۔
 الْبَيْئَةُ - دلیل و حجت۔ جو - بَیِّنَات
 بَاكَ يَبَاهُ بَيْهًا - لہ - مطلع ہونا۔ واقف
 ہونا۔ جاننا۔

(۴۰۰)

ت

ت :- کئی طرح استعمال ہوتی ہے :-

۱۔ فعل ماضی کے آخر میں متکلم اور مخاطب کی
 ضمیر ہو کر جیسے ذَهَبْتُ (میں گیا گئی)۔
 ذَهَبْتُ (تو گیا، ذَهَبْتُ (تو گئی) وغیرہ۔
 ۲۔ فعل ماضی کے صیغہ واحد غائب میں مؤنث کی
 علامت بن کر جیسے ذَهَبْتُ (وہ گئی)۔
 ۳۔ فعل مضارع مخاطب اور مؤنث غائب کے

فروع میں علامت مضارع ہو کر جیسے تَذَهَّبُ
 (وہ جاتی ہے یا تو جاتا ہے) تَذَهَّبِينَ
 (تو جاتی ہے)۔
 ۴۔ اسم کے آخر میں علامت تانیث بن کر۔
 جیسے قائمۃ - (کھڑی ہونے والی)
 ۵۔ جنس جمع کے واحد کے لیے جیسے شَجَرَةٌ
 (ایک درخت)

۶۔ مبالغہ کے لیے جیسے عَلَامَةٌ دہشت چلانے والا
 ۷۔ قسم کے لیے جیسے تَاللّٰہ (خدا کی قسم)
 ۸۔ کبھی حرف مخدوف کے بدل میں آتی ہے جیسے
 زنادقة - زندیق کی جمع۔
 ۹۔ افعال کے وسط میں بھی زائد کی جاتی ہے
 جیسے اقتتل۔
 ۱۰۔ کبھی اسماء کے آخر میں آتی ہے۔ جیسے :-

ملکوت کی تاء
۱۱۔ کبھی ادل کلمہ کے حرف محذوف کے بدل میں آتی ہے، جیسے عظمة۔
۱۲۔ کبھی آخر کلمہ سے جیسے شفة۔
تاء۔ اسم اشارہ ہے، مؤنث مفرد کے لیے اس کا فنی تان اور اس کی جمع اولاء ہے اس پر ہائے تنبیہ لائے ہیں جیسے هاتان و هولاء۔ بحالت خطاب کان لاجتی کرتے ہیں جیسے تالک، ذلک و ذلک و تذلک۔ "تلک" میں تاء کافج لغت ردیہ ہے۔
فنی کے لیے تانک و تانک اور جمع کے لیے اولنک و اولک و اوللک ہے اور تلک کے علاوہ ان سب پر سارے احوال میں ہا تنبیہ بھی لائے ہیں۔
التأولت۔ کلڑی کا صندوق اور تابوت میت بھی اسی سے ہے کشتی۔ جر۔ توأبیت۔
تأنا تأنا تأنا و تانأ تانأ۔ تانکی اور تانگی میں تئانا۔ صفت (تأنا تاء)۔ الطفل۔
بچہ کا چلنا۔ المحارب۔ لڑائی میں بہادر کا کرک چلنا۔
تأردہ۔ دف، تاراً۔ جھڑکنا۔ دھمکانا۔
أنا رأنا رأنا۔ دیکھنا، ٹھٹھکی لگانا۔ ہا بالعصا کسی کو لاٹھی سے مارنا۔
التارح۔ ایک مرتبہ، ایک دفعہ، ہمزہ کا ترک کثرت استعمال کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں "فعلت تارحاً هذا وتارحاً ذاك وتارحاً بعد تارحاً"۔ جر۔
تأرات و تیر و تیر۔
تأذرت، تأذرا۔ الجرح۔ زخم کا بھرننا۔
مندل ہونا۔ القوم فی الحوب۔ لڑائی میں لوگوں کا قریب قریب ہونا۔
تثیق۔ رس، تاناً۔ الاناء۔ برتن بھرنا۔
الرجل۔ غصہ سے بھرنا۔ صفت (تثیق و متاق)۔
تاق۔ الاناء۔ برتن کو بھرنا۔

التأفة۔ غصہ کی تیزی۔ بدی کی طرف تیزی سے بڑھنا۔
التأمت۔ المرأة۔ عورت کا جڑواں اولاد جننا۔ صفت (مؤتم)۔ اگر یہ اس کی عادت ہی ہوگئی ہو تو ایسی عورت کو مقام کہتے ہیں۔ جر۔ متا ئیجہ۔
تاءم۔ اخا۔ بھائی کے ساتھ جڑواں پیدا ہونا صفت (تیم و تؤم و تئیم)۔ الثوب کپڑے کو دوبرے دھاگے سے بننا۔ صفت (مفعول دھتاءم)۔
التوأم۔ جڑواں۔ جر۔ توأجم و توأم۔ مؤنث توأمة۔ کہتے ہیں "هذا توأم هذا"۔ وھذا۔ توامة ھذا۔ اور جب دونوں جمع ہوں تو ان کو توامان و توام کہتے ہیں جیسے زوجان و زوج۔ جوئے کے تیروں میں سے ایک تیر۔
توأسد النجوم اول اللؤلؤ۔ گنجان ستارے یا موتی۔
تث دن تئنا۔ الشئ۔ کاٹنا۔ فلائنا ہلاک کرنا۔
تئنا و تئنا و تئنا و تئنا۔ ہلاک ہونا۔
تئنا۔ اللہ تعالیٰ خیران و ہلاکی (اس کے لیے لازم کر دے)۔ و تئنا یداک خدا کرے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔
تئب۔ فلائ کسی سے تئبا لک لہنا۔ ہلاک کرنا۔
تئبہ۔ کمزور و ضعیف کرنا۔
استئبت۔ الامر۔ کام کا درست ہونا۔
ٹھیک ہونا۔ درستی کی حالت میں جاری رہنا۔ الرجل۔ کمزور و عاجز ہونا۔
الطریق۔ راستہ کا بہت چلنے والا ہونا۔
التباب۔ کمی۔ نقصان۔ ہلاکت۔
التبہ۔ سخت حالت۔
التاب۔ بوڑھا۔ کمزور آدمی کہتے ہیں کنت نشاباً فقیرت تائباً میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا۔ جر۔ آتباب۔
تئب۔ الرجل۔ آدمی کا بوڑھا ہو جانا۔

تئبر دس، تئبرا۔ ہلاک ہونا۔
تئبرہ دس، تئبرا۔ ہلاک کرنا۔ توڑنا۔
آتئبر۔ عن الامر۔ کام سے پیچھے ہٹنا۔ رکتا۔
تئبرہ۔ ہلاک کرنا۔ برباد کرنا۔
التابور۔ فوجی دستہ۔ جر۔ توأبیر۔
التبار۔ ہلاکی۔ تباہی۔
التئبر۔ سونے کا ڈھیلا جو نہ ڈھیلا ہوا ہو یا سکے کی شکل میں نہ ہو یا ابھی کان کی مٹی میں ہو۔ واحد تئبرہ۔
التئبریہ۔ بالوں کی جڑوں کی بھوسی۔
المتئبر۔ ہلاک ہونے والا۔ ناقص۔
تئبعہ دس، تئبعاً و تئبعاً و تئبعاً و تئبعاً و تئبعاً۔ پیچھے چلنا۔ ساتھ چلنا۔ مطیع و فرمانبردار ہونا۔ صفت (تبع)۔ یہ واحد و جمع ہر دو کے لیے آتا ہے۔ جر۔ آتباع۔
و (تابع)۔ جر۔ تبع و تئبع و توابع و تئباع۔
التابع۔ نوکر۔ خادم۔ جن۔
تئبع و آتئبع۔ الشئ۔ پیروی کرنا۔ آثار۔ قدیم پر چلنا۔
تئبعہ۔ پیروی کرنا۔ تئبعہ بلہ کذا۔ لاجتی کرنا۔
تابع۔ بین الاعمال۔ کام لگاتا کرنا۔
الحديث۔ بات اچھی طرح بیان کرنا۔
العمل۔ کام مضبوط کرنا، حکم کرنا۔ فلائنا علی الامر۔ کسی سے کسی کام پر موافقت کرنا۔ کہتے ہیں۔ تابعی بحالہ عندی اس کا جو کچھ میرے پاس تھا۔ اس کا اس نے مجھ سے مطالبہ کیا۔
آتئبعہ۔ پیروی کرنا۔ لاجتی ہونا۔ اتبعہ کذا۔ لاجتی کرنا۔
تئبع۔ الامر۔ دیر تک تلاش و جستجو کرنا کہتے ہیں۔ تئبعت احوالہ۔ میں اس کے احوال کی ٹٹول میں لگا رہا۔
تئبعت۔ الاخبار۔ خبروں کا ایک دوسرے کے بعد آنا۔



التَّوْبَةُ وَالتَّوْبَةُ: ایک خوبصورت پرندہ جس کی دم لمبی ہوتی ہے۔ ج۔ تَدَارُج۔
 تَوْبَةٌ دَنُ مَن تَوَّارَتْ وَتَوَّارَا: العظمُ ہڈی کا کٹ کر گرنا۔ عن قومہ۔ اپنی قوم سے جدا ہونا۔ وعدہ ہونا۔ وَتَوَّارَا: الرجلُ آدمی کا موٹا اور ڈھیلہ ہونا۔ صفت رتات
 آتَرَا: دور کرنا۔ اَنْتَرِيْدَا: ہاتھ کاٹنا۔
 اَنْتَرَا: اصل۔ جڑ۔ معمار کا سوت۔
 اَنْتَرِي: صِنِّ الْاَبْدِي: کٹا ہوا ہاتھ۔
 تَوْبٌ دَسْ تَوْبَا: امکان۔ جگہ کا زیادہ مٹی والا ہونا۔ الشَّيْءُ کسی چیز کے مٹی لگنا۔ جگہ کا زیادہ مٹی والا ہونا۔
 تَوْبٌ دَسْ تَوْبَا وَتَوْبَا: الرجلُ محتاج ہونا۔ صفت (تَوْبٌ وَتَوْبٌ) ج۔
 تَوَابٌ اور اسی سے ہے یہ قول تَوْبٌ بعد ان اَنْتَرَبَ وہ غنی و مالدار ہونے کے بعد محتاج و فقیر ہوا۔
 تَوْبٌ وَ اَنْتَوْبٌ: مالدار ہونا۔ نئی دست و محتاج ہونا۔
 تَوْبٌ وَ اَنْتَوْبٌ: الشَّيْءُ مٹی ڈالنا۔
 تَوَابٌ: ہم عصر ہونا۔ دوست ہونا۔
 اَنْتَوَابٌ: بکری کا بچہ۔
 اَلتَّوْبُ: ہم عصر۔ ہم عمر۔ دوست، ساتھی۔ ج۔
 اَنْتَوَابٌ: اس کا استعمال اکثر مؤنث میں ہوتا ہے کہتے ہیں: "هَذِهِ تَوْبٌ فَلَانَةُ" یہ عورت فلاں کی ہم عمر ہے۔
 تَنْتَوْبٌ: مٹی ہونا۔ خاک آلود ہونا۔
 اَلتَّوَابُ: مٹی۔ ج۔ اَنْتَوْبَةٌ وَتَوْبَانٌ۔
 اَلتَّوْبُ وَ اَلتَّوْبُ: مٹی۔
 اَلتَّوْبَاءُ: مٹی، زمین کہتے ہیں: "بَيْنَهُمَا مَابَيْنَ الْجَوَاءِ وَ اَلتَّوْبَاءِ" یعنی ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین میں فرق ہے۔
 اَلتَّوْبَةُ: مٹی، قبرستان۔ ج۔ تَوْبٌ۔ تَوْبَةٌ: اَلنَّاسُ انسان۔ انسان کی قبر۔
 اَلتَّوْبُ: فقیر۔ ریحہ تَوْبَةٍ: خاک اڑانے والا۔

لَحْمٌ تَوْبٌ: خاک ملا گوشت۔ مکان تَوْبٌ: بہت مٹی والی جگہ۔
 اَلتَّوْبَةُ: ج۔ تَوْبٌ: ایک قسم کی گھاس۔ ج تَوْبَاتٌ: انگلیوں کے پورے۔
 تَوْبِيَّةٌ: سینہ کی ہڈی۔ سینہ کا بالائی حصہ۔
 تَوْبِيَّةُ الْبَعِيرِ: اونٹ کے سر کی جگہ۔ ج۔ تَوَابٌ۔
 اَلْمَتَوْبَةُ: فقر و فاقہ کہتے ہیں: "مَسْكِيْنٌ ذُو مَتَوْبَةٍ" خاک آلود مسکین۔
 تَوْتَرٌ تَوْتَرَةٌ: جلدی جلدی اور بہت بولنا۔ گفتگو میں نرم اور بدن میں ڈھیلہ ہونا۔
 الشَّيْءُ: خوب بلانا۔
 تَوْتَرٌ: بل جانا۔
 اَلتَّوَابُ: سختیاں۔
 تَوْرَجٌ دَسْ تَوْرَجَا: الرجلُ مشکل پانا۔
 تَوْرَجٌ دَنُ تَوْرَجَا: چھپنا۔ پوشیدہ ہونا۔
 اَلتَّوْرَجُ: مضبوط پٹھوں والا۔ مونث۔ تَوْرِيحَةٌ کہتے ہیں: "رِيحٌ تَوْرِيحَةٌ" تیز و تند ہوا۔
 تَوْرَجَمَ: الكلامُ ترجمہ کرنا۔ صفت (تَوْرَجَانُ) دَنْوْرَجَانُ ج۔ تَوْرَجَمَ وَتَوْرَجَمَ: الرجلُ کسی شخص کے عادات و خصائل پر کرنا۔ غلہ کسی کے معاملہ کو واضح کرنا۔
 کہتے ہیں: "تَوْرَجَمَ بِالْتَرَكِيَّةِ" اس نے اس کا ترکی زبان میں ترجمہ کیا۔
 تَوْرَجَمَ: الكلامُ کلام کا مشتبہ ہونا۔
 اَلتَّوْرَجَمَةُ: ترجمہ کسی شخص کی سوانح حیات۔ ج۔
 تَوْرَجَمَ: ترجمہ الکتاب کتاب کا دیباچہ۔
 تَوْرَجَمَ دَسْ تَوْرَجَا وَتَوْرَجَمَ: غمگین ہونا۔
 تَوْرَجَمَ وَ اَنْتَوْرَجَمَ: غمگین کرنا۔
 اَلتَّوْرَجُ: غم، رنج، محتاجی، فقری۔ ج۔ اَتَوْرَجُ اَلتَّوْرَجُ: کم خیر والا۔ بہت غمگین۔
 اَلْمَتَوْرَجُ: تھوڑی مدت دودھ دینے والی اونٹنی۔ ج۔ مَتَوْرِيحٌ۔
 تَوْرَدُ دَنُ وَ تَوْرَدُ دَسْ: تَوْرَدُ وَ تَوْرَدَا وَ تَوْرَدَا: الشَّيْءُ خشک ہونا۔ سوکھ جانا۔

سخت ہونا مضبوط ہونا۔ الماءُ پانی کا جم جانا۔
 تَوْرَدَ دَنُ تَوْرَدَا: بچھاڑنا۔
 اَنْتَرَا: الشَّيْءُ کسی شے کو سخت کرنا۔ خشک کرنا کہتے ہیں: "الْجَوِي يَتَوْرَدُ لِحْمِ الدَّابَّةِ" دور جانور کے جسم کو سخت کر دیتی ہے۔
 اَلتَّوَارُزُ: قوی۔ سخت، اور اسی سے ہے یہ قول "ان عَجَبِيْنِ لَتَوَارُزُ" تمہارا غمیر سخت ہے۔
 خشک چیز جس میں روح نہ ہو۔ مردہ۔
 اَلتَّوَارُزُ: اچانک موت۔
 تَوْرَسَ: کسی کو ڈھال پہنا نا یا دینا (وَتَوْرَسَ) ڈھال پہنا۔ ڈھال سے حفاظت کرنا۔ صفت (تَوَارِسُ) کہا جاتا ہے: "لَا يَسْتَوِي الرَّاجِلُ وَ الْفَارِسُ وَ اَلْاَكْشَفُ وَ اَلتَّوَارِسُ" پیدل اور سوار اور بے ڈھال والا برابر نہیں ہوتے۔
 اَلتَّوْرَسُ: البابُ دروازہ بند کرنا۔
 اَلتَّوْرَسُ: بِالْتَّوْرَسِ او غیرہ۔ ڈھال وغیرہ سے اپنی حفاظت کرنا۔
 اَلتَّوْرَسُ: ڈھال۔ ج۔ اَلتَّوْرَسُ وَ تَوْرَسُ وَ تَوْرَسُ وَ تَوْرَسَةُ: تَوْرَسُ الشَّمْسُ سورج کی ٹکیہ کہتے ہیں: "غَابَ تَوْرَسُ الشَّمْسِ" اَلْمَتَوْرَسُ وَ اَلْمَتَوْرَسَةُ: ج۔ مَتَوْرَسُ (و) اَلْمَتَوْرَسُ (و) مَتَوْرَسِيْنِ: دروازہ کے پیچھے لگانے کا ڈنڈا۔ مورچہ۔ کھائی۔
 اَلتَّوْرَسُ: ڈھال بنانے والا۔ ڈھال والا۔
 اَلتَّوْرَسَةُ: ڈھال بنانے کا پیشہ۔
 اَلتَّوْرَسَانَةُ وَ اَلتَّوْرَسَانَةُ: اسلمہ خانہ۔
 جہاز سازی کا کارخانہ۔
 تَوْرَشُ دَسْ تَوْرَشَا: بخل ہونا۔ صفت (تَوْرَشُ) تَوْرَشُ دَنُ تَوْرَشَا: الشَّيْءُ چیز کا مضبوط ہونا۔ سیدھا ہونا۔ صفت (تَوْرِيصُ) تَوْرَشُ وَ اَلتَّوْرَشُ: الميزان۔ ترازو کا سیدھا کرنا صفت مفعولی (تَوْرِيصُ) کہتے ہیں: "اَلتَّوْرَشُ مِيزَانُكَ فَاتْلُهُ شَائِلٌ" اپنی ترازو ٹھیک کر لے کیونکہ اس کا پلٹا اٹھا





ہوا ہے۔
 الْمُتَوَصَّات - سیدھے نیرے۔
 تَرَع (س) تَرَعًا - برائی کی طرف سبقت کرنا تیری
 سے بڑھنا۔ صفت (تَرَع) و تَرَعٌ -
 اَلْكُوزُ وَالْحَوْضُ - کوزے یا حوض کا بھر
 جانا۔ پُر ہونا۔ صفت (تَرَع)
 تَوَعَّه (ف) تَوَعَّاهُ - عَنِ الْأَمْرِ - کسی کام سے
 روکنا۔ باز رکھنا۔ تَرَعُ الْبَابُ - دروازہ
 بند کرنا۔ اَتَرَعُ - الْأَنَاءُ - برتن بھرنا۔
 تَتَرَعُ - ابیدہ بالشعر - کسی کو جلد برائی
 پہنچانا۔ اَتَرَعُ الْأَنَاءُ - برتن کا بھر جانا۔
 التَّرَعَةُ - دروازہ۔ کہتے ہیں فتح تَرَعَةُ
 الدَّارِ - اس نے گھر کا دروازہ کھولا۔
 - باغ - باغ کی طرف جانے والی نالی۔
 دودریاؤں یا سمندروں کے درمیان میں
 گہری نہر سیڑھی کا پایہ منبر کے درجے۔
 حوض کا دھانہ۔ جہ۔ تَرَع -
 التَّرَاح - دربان۔ دَوَا التَّرَاحِ - مَنِ السَّيْلِ
 وادی کو بھر دینے والا سیلاب
 التَّرَغْلَةُ - جنگلی کبوتر۔
 تَرَف (س) تَرَفًا وَتَتَرَفُ - خوشحال و
 آسودہ حال ہونا۔ مرفہ الحالی کی زندگی بسر کرنا
 صفت (تَرَف) وَتَرَفٌ -
 تَرَفُهُ وَتَرَفُهُ - المالُ - مال کا کسی کو سرکش
 بنانا۔ خراب کر دینا۔ اَتَرَفُ الرَّجُلُ -
 کسی کا سرکشی پر اصرار کرنا۔
 اسْتَتَرَف - بغاوت کرنا۔ سرکشی کرنا۔
 التَّرَفَةُ - نعمت و آسائش کی زندگی۔ اوپر کے
 ہونٹ کے وسط میں قدرتی اُبھار۔
 الاَتَرَف - وہ شخص جس کے اوپر کے ہونٹ میں
 فطری اُبھار ہو۔
 الْمُتَرَفُّ وَالْمُتَرَفُّ - ظالم، سرکش، خوشحال۔ آزاد۔
 وہ شخص جو چاہے کر گذرے، کوئی اس کو
 نہ روک سکے۔
 التَّرْقُوہ - بنسلی۔ جہ۔ التَّرَاقِي وَالتَّرَاقِي

کہتے ہیں "تَرَقَا تَرَقَا" اس نے اس
 کی بنسلی پر مارا۔ وَبَلَغَتْ رُوحَهُ التَّرَاقِي
 وہ دم بلب ہو گیا۔
 تَرَكَهُ (ن) تَرَكًا وَتَرَكًا - چھوڑنا۔
 غافل کرنا۔
 تَرَكَه مَتَرَكَهً وَتَرَكَهً - الرَّجُلُ -
 مصالحت کرنا۔
 تَتَارَكُوا - الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ - کسی کام کے چھوڑنے
 پر اتفاق کرنا۔
 التَّرَكُّه وَالتَّرَكُّه - شرم رخ کا چھوڑا ہوا اٹھا
 بچہ نکلنے کے بعد اٹھے کا نول۔ خود۔ ود
 عورت جو اپنے باپ کے گھر بیٹی رہے۔
 اور اس سے کوئی شادی نہ کرے۔
 التَّرَكُّه وَالتَّرَكُّه - چھوڑی ہوئی چیز تَرَكُّه
 المَبِيتُ بھی اسی سے ہے۔
 التَّرِيكُ - چھوڑا ہوا۔ مَنِ الْكُورِ وَالْفَخْلِ -
 انگوروں یا کھجوروں کا خوشہ یا گچھا جو سب کھا
 لیا گیا ہو یا پھوڑا چھوڑ دیا گیا ہو۔
 التَّرَاكُ - بہت چھوڑنے والا۔
 تَرَمَسَ - لڑائی سے غائب ہونا۔ تَرَمَسَتْ
 الدَّابَّةُ - جانور کے جڑے کے اندر رک
 جانب ترمس کے مشابہ پھنسیاں نکلتا۔
 التَّرَمَسُ - ایک قسم کی نبات جس کا بیج مزے
 میں کڑوا ہوتا ہے اور پانی میں بھگو کر
 استعمال کیا جاتا ہے۔
 التَّرَمْسَةُ - سرنگ، ترخانہ۔
 التَّرَامِسُ - چاندی کے مہرے۔
 التَّرَامِسُ - گدھا۔
 التَّرَنُّجُ - لیموں، لیموں کا درخت، عام لوگ
 اس کو تَبَّاد کہتے ہیں۔
 تَرَه (س) تَرَهًا - باطل چیز میں پڑنا۔
 التَّرَهَاتُ - جہ۔ تَرَهَاتُ - باطل، مصیبت
 تَرَهَاتُ - چھوڑے راستے۔
 التَّرَه - باطل۔ جہ۔ تَرَادِيَةٌ -
 تَرَلِي (ف) تَرَلِيًا - فِي الْأَمْرِ - کسی کام میں دیر کرنا

التَّرِيَاقُ - زہر کے اثر کو دفع کرنے والی دوا
 (د) التَّرِيَاقَةُ - شراب۔
 تَسَعَ (ف) تَسَعًا - الْقَوْمُ - نواں ہونا۔
 نواں بنانا۔ قوم کے مال کا نواں حصہ لینا۔
 - المالُ - مال کا نواں حصہ لینا۔
 اَتَسَعَ - الْقَوْمُ - نو ہو جانا۔
 التَّسْعَةُ - نو، مؤنث تسع۔ کہتے ہیں۔
 "تسعة رجال وتسع نساء" و
 تسعة عشر رجلا وتسع عشرة
 امرأة - جہ۔ تسعات -
 التَّسْعُ وَالتَّسْعِي - نواں حصہ جہ۔ اَتَسَعَ -
 التَّاسِعُ - نواں۔
 تَسْعُون - نوے۔
 تَسَاع - نو، کہتے ہیں "جَاءَ الْقَوْمُ تَسَاعًا"
 لوگ نو نو کر کے آئے۔ یہ غیر منصف ہے۔
 التَّسَاعِي - نو والا۔
 التَّاسُوعَا - ماہ کی نویں تاریخ۔ حیل
 مَسُوع - نوڑیوں سے بٹی ہوئی رسی۔
 تَشْرِينُ الْأَوَّلِ - ماہ اکتوبر۔ تَشْرِينُ ثَانِي
 ماہ نومبر۔ جہ۔ تَشَارِين - موسم خزاں۔
 تَعَرَنَ تَعَرَةً وَتَعَا - ڈھیلا ہونا، قے کرنا۔
 تَعَب (س) تَعَبًا - مشقت میں پڑنا۔ تَعَلَنَ -
 صفت (تَعَب)
 اَتَعَبَهُ - تَعَلَنَ - الْقَوْمُ - تَعَبَ الْأَنَاءُ - برتن بھرنا۔
 الْقَوْمُ - قوم کے جانوروں کا تھکا ہوا ہونا
 التَّعَبُ - مشقت، تھکن۔ جہ۔ اَتَعَبَ -
 التَّعَبُ وَالْمُتَّعِبَةُ - تَعَلَنَ - تَعَلَنَ کی جگہ
 تَعَلَنَ کا باعث و سبب کہتے ہیں۔
 "استخراج المعنى مُتَّعِبَةٌ لِلْخَوَاطِرِ"
 معنی کا حل کرنا دل کو تھکا دیتا ہے۔ جہ۔
 مَتَاعِب -
 تَعَفَّلَ - سختی سے بلانا۔ تَعَمَّ فِي الْكَلَامِ
 بات کرنے میں ہٹکنا۔
 التَّعَاتِي - خوفزدہ کرنے والی جھوٹی خبریں۔
 تَعَس (ف) تَعَسًا - تَعَسًا وَتَعَسًا -

ہلاک ہونا۔ بھسنا اور منہ کے بل کرنا۔ صفت
(لَقِيسَ وَتَارِيسَ وَتَعِيسَ)
لَعَسَهُ وَأَلْعَسَهُ - اللہ - اللہ کا کسی کو بد
نصیب بنانا۔ ہلاک کرنا۔ کہتے ہیں "لَعَسًا
لَهُ" اللہ اس کو ہلاک کرے۔
التَّعَسَ - مہم۔ ہلاکت، بدی، تنزل۔
التَّعَسَةُ - ٹھوکر۔
الْمُتَّعَسَةُ - ٹھوکر یا ہلاکی کا سبب کہتے ہیں۔
"هَذَا الْأَمْرُ مُنْجَسَةٌ وَمُتَّعَسَةٌ"
یہ معاملہ باعثِ نحوست و ہلاکت ہے۔
تَعِصَ (دس) تَعَصًا - زیادہ چلنے سے پٹھوں کا
دکھ جانا۔
التَّعَلَّ - حلق کی سوزش۔
تَغَبَّ (دس) تَغَبًّا - ہلاک ہونا۔
أَتَغَبَّهُ - ہلاک کرنا۔
التَّغَبَّ - ہلاکت، میل کچیل، بھوک، عیب، فساد۔
التَّغَبُّ وَالتَّغَبُّةُ - گناہ، قبیح، کہتے ہیں۔
"مَا فِيهِ تَغَبَّةٌ" یعنی اس میں کوئی ایسا
عیب نہیں جس سے اس کی شہادت رو
کی جائے۔
تَغْتَعَّ - الکلام - بات صاف نہ کرنا۔
الضَّحْكُ - ہنسی چھپانا۔
الْمُتَغَتِّعَةُ - زبان کی ثقالت۔
تَغَوَّرَتْ (دس) تَغَوَّرًا وَتَغَوَّرًا - السَّحَابَةُ
بادل کا برسنا۔ تَغَوَّرَ الْعَرَقُ - رگ سے
بہت خون جاری ہونا۔ تَغَوَّرْنَا - القِدْرُ
ہاڈی کا اُبنا۔ جوہر (تغوار) بہت خون
بہلنے والا زخم۔
تَقَهَّهَ - کسی کو تفت کہنا۔
التَّغَى - ناخن کا میل۔ جہر، تَفَفَّہَ -
الْمِثْقَانُ - وقت، کہتے ہیں "أَتَيْتُكَ بِمِثْقَانَةٍ"
وَعَلَى مِثْقَانَةٍ میں تمہارے پاس
وقت مناسب پر آیا۔
التَّقَّةُ - حقیر و ذلیل عورت۔
الْتَفَقَهُ - ایک قسم کا چھوٹا کڑا جو کھال کو

خراب کرتا ہے۔
تَفَقَّى (دس) تَفَقًّا - سخت ناراض ہونا۔ بہت
غصہ ہونا۔
تَقِيمَةُ وَتَقِيَّةُ الشَّيْءِ - کسی شے کا وقت۔
تَقِيتُ (دس) تَقِيتًا - کسی شے پر میل کچیل چڑھ
جانا۔ صفت (تَقِيتُ) کہتے ہیں "قَضَى
تَقِيتَهُ" اس نے میل کچیل کو دور کیا۔
تَقِيتُ - الدِّمَاؤُ مَكَانَهُ - خون کی جگہ کو
آلودہ کرنا۔
التُّفَّاحُ - سیب، سیب کا درخت۔ واحد
تُفَّاحَةٌ - جہ - تَفَافِيحُ -
التُّفَّاحَاتُ - دونوں رانوں کے سرے۔
الْمُتَفَفِّحُ - سیب کے پیداوار کی جگہ۔
التُّفَرُّ - الشَّجَرُ - درخت کا کوئی بیس نکالنا۔
الرَّجُلُ - ناک کے بالوں کا ہونٹ کے
گڑھے تک لمبا ہونا۔ الرَّجُلُ التَّافِرُ وَ
التُّفَرُّ وَالتُّفَرَّانُ - میلا اور گندہ آدمی۔
الْبُتْفَرَةُ وَالتُّفَرَّةُ وَالتُّفَرَّةُ - اوپر کے
ہونٹ کا گڑھا۔
تُفَرَّةُ - الشَّجَرُ - درخت کی کوئی بیس و التُّفَرَّةُ
درخت کے نیچے اگنے والی گھاس۔ یا وہ
گھاس جس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے
جانور نہ چرسکے۔
التُّفَارِيحُ - جھوڑے کے پائوں کا فاصلہ۔
انگلیوں کے درمیان کی کشادگی و فراخی۔
وَاحِدُ تَفَرُّاحٍ -
التُّفَرُوقُ - غلاف خرما۔
تَقَلَّ (دس) تَقَلًّا - تھوکتا۔
تَقَلَّ (دس) تَقَلًّا - الرَّجُلُ - تیل اور خوشبو
نہ لگانے کی وجہ سے بدبودار ہونا۔
صفت (تَقَلَّ) مؤنث (تَقَلَّةٌ وَتَقَلَّةٌ)
أَتَقَلَّهَ - بدبودار کرنا۔
الْمِثْقَلَةُ - پیک دان، بھوک دان۔ جہ -
مَتَارِفُ -
الْمِثْقَلُ وَالتَّقَلُّ - لومڑی۔

التَّقَنَّ - میل۔
تَقَهَّ (دس) تَقَهَّ وَتَقَهَّهَ - الشَّيْءُ - کم ہونا۔
خیس ہونا۔ حقیر ہونا۔ کہتے ہیں "تَقَهَّ
عَطَاءُ خُلْدٍ" فلاں کی داد و بخش
کم ہے۔
تَقَاهَاةُ - الطعام - کھانے کا بے مزہ ہونا۔
صفت (تَقَهَّ وَتَقَهَّهَ) تَقَهَّهَ - الرَّجُلُ
کم عقل ہونا۔ صفت (تَقَاهَاةُ)
أَتَقَهَّهَ - الشَّيْءُ - کم کرنا۔ تَقَهَّهَ - الرَّجُلُ
ہیں "أَعْطَيْتُ فَاتَقَهَّهَتْ" تم نے
دیا۔ مگر کم دیا۔
الْبِتْقَانَةُ وَالتَّقَنَّةُ - دھنیا۔ زیرہ۔ روٹی۔
مسالہ۔
التَّقَرُّةُ - مسالہ۔
تَقَعَّ (دس) تَقَعًّا - بھوکا ہونا۔
التَّقَعُّ - بھوک۔
أَتَقَنَّ - الْأَمْرُ - کام کو مضبوطی سے کرنا۔
تَقَنَّ - الْأَرْضُ - زمین کو کھپڑ والے پانی
سے سیراب کر کے طاقتور کرنا۔
التَّقَنَّ - طبیعت۔ کہا جاتا ہے "الفصاحة
مِنْ تَقَنَّهِ" یعنی فصاحت اس کی
طبیعت کا خاصہ ہے۔ گارا بخشک ہو
کر ترخ کیا ہو۔ حوض کا بچا ہو گا لا پانی۔
رَجُلٌ تَقَنَّ وَتَقَنَّ - کام کو بھروسے
کے ساتھ انجام دینے والا۔ کام میں ماہر
جہ - أَلْقَانُ -
التَّقَنَّةُ - حوض کا بچا ہو گا لا پانی۔
تَقَى - مادہ وقی کو تلاش کیجیے۔
تَقَنَّ (دس) تَقَنَّ - روندنا۔ کچل دینا۔ پامال کرنا
تَقَنَّ النَّمِيذُ - نبیذ کا بدبو ش کر دینا۔
تَقَنَّ (دس) تَقَنَّ - الرَّجُلُ - آدمی کا
لاغر ہونا۔ احمق ہونا۔ صفت (تَقَنَّ)
جہ - تَقَنَّ وَتَقَنَّ وَتَقَنَّ وَتَقَنَّ
تَقَنَّ -
أَسْتَقَنَّ - الْبَيْتَةُ - پانچ ماہ میں ازار بند



والتا۔

التِّلْكَةُ - ازار بند۔ ناٹا۔ جہ۔ تِلْكَ -

الْمِتْكَ - پانچامہ میں ازار بند ڈانے کی سائی۔

التِّلْكِي - ازار بند پہنے والا۔ یا بنانے والا۔

تَكْمًا - مادہ "وَلَا" میں تلاش کیجیے۔

تَكْشَلْكَ تَكْشَلْكَ - روزِ کرکبل دینا۔ ٹکڑے

ٹکڑے کرنا۔ السَّاعَةُ - گھڑی کا ٹک

ٹکڑے کرنا۔

تَكَلَّ - دیکھیے مادہ "وَلَا"۔

تَلَّه دَن، تَلَّه - پچھاڑنا۔ الشَّيْءُ الْبَدِيءُ -

بھٹانا۔ دَفْعَ کرنا۔ الْحَبْلُ فِي الْبَيْتِ -

کنویں میں رسی لٹکانا۔ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ -

کوئی چیز ہاتھ میں رکھنا۔ کہا جاتا ہے۔

"تَلَّه بَتَلَّه سَوَّعَ" اس نے اس

پر بڑے فعل کی تمت لگائی۔ الیہ

کسی کے سامنے عاجزی کرنا بگڑا کرنا۔

أَتَلَّ - الدَّائِلَةُ - جانور کو باندھنا۔ کھینچنا۔

التَّلَّوْلُ والتَّلَوُّلَةُ - گراہی۔

التَّلَّ - مِنَ الْأَرْضِ - ٹپہ۔ جہ۔ تَدَلُّ و

تُلُّوْل - واحد تَلَّة -

التِّلَّة - حالت روا التِّلَّة، بیٹے کا طریقہ

یا اس کی حالت۔ گرنے کی حالت۔ اور

کہا جاتا ہے۔ "فِي خَلْقِهِ تَلَّةٌ" اس

کی رشت میں سستی ہے۔

الْأَنْبِل - جہ۔ أَتَلَّه وَتَلَّ وَتَلَّوْل -

گردن۔ جہ۔ تَلَّى - پچھاڑا ہوا۔

الْمِتَل - وہ چیز جس سے کسی کو پچھاڑا جائے

کہا جاتا ہے۔ رَمَحَ وَتَلَّ - سیدھا

اور سخت نیزہ۔ قَمَى اور مضبوط آدمی

یا اونٹ۔

التَّلَّى - ذبح کی ہوئی بکری

الْمِتَلَّاب - لَمْ يَلْمَّابًا - اَلْمَصْرُ - کام کا

درست ہونا۔ الْحِمَارُ - گدھے کا سر۔ و

سینہ اٹھانا۔ کہتے ہیں "قِيَّاسٌ مُتَلَبِّبٌ"

ایک ہی قسم کا قیاس۔ طَرِيقٌ مُتَلَبِّبٌ

لمبا اور سیدھا راستہ۔

التَّلَب - نقصان۔ ٹوٹا۔ کہتے ہیں۔ تَبَّالَه

وَتَلَبَّأ - یعنی اللہ نقصان و ہلاکت اس

کے لازم کر دے۔

الْمَتَّالِب - ہلاکت کی جنگیں۔ غلام مویشی وغیرہ

کا گھر میں پیدا شدہ ہونا۔

التَّلَاب - پیڑی بکرا۔

التَّوَلَّب - گدھے کا بچہ۔ جہ۔ تَوَلَّب -

أُمُّ تَوَلَّب - گدھی۔

تَلَدَّ رَضَن تَلَوْدًا - المَالُ كَالْأَبْلِ و

الْغَنَمِ - پرانا مقبوضہ ہونا۔ صفت رَتَّالِدٌ

وَتَلَدَّ وَتَلَدَّ وَتَلَدَّ وَتَلَدَّ وَتَلَدَّ

اور اس کے خلاف ظارِفٌ وَطَرِيفٌ

ہے۔ رَن، وَتَلَدَّ رَسَ - فِي الْقَوْمِ -

وَبِالْمَكَانِ - قِيَامٌ بِذِي رَنَ - اور کہتے

ہیں "تَلَدَّ فَلَاحٌ عِنْدَنَا" فلاں کے

مال باپ ہمارے ہاں پیدا ہوئے۔

أَتَلَدَّ - الرَّجُلُ - مَوْرُوهُ مَالٌ وَالَا هُونَا -

مال حاصل کرنا۔ تَلَدَّ - مَالٌ جَمَعَ كَرْنَا -

التَّلْد - عَقَابُ كَا چوزہ۔

التَّلِسْكَوْب - دَوْرَيْن (جدید) اس کے

لیسے عربی مِرْقَب ہے۔

التَّلِيْسَةُ - خَصِيہ۔

تَلَصَّه تَلَصَّصًا - زَمَ و سہوا کرنا۔

تَلَع دَف، تَلَعَا وَتَلَوَّعَا - الزَّهَارُ - دَن

چڑھنا۔ الضَّحَى - چاشت کا وقت

ہونا۔ الرَّجُلُ الْوَالِطِيُّ - سرباہر

نکالنا۔

تَلَع دَس، تَلَعَا - الْأَنَاءُ - بَرْتَن کا بھرنا۔

تَلَعَا وَتَلَوَّعَا - عَشْقَا - گردن کا

دراز ہونا۔ الرَّجُلُ - آدَمی کا لمبی گردن

یا لمبے قد والا ہونا۔ صفت دَأْتَلَع و

تَلِيَع

أَتَلَع وَتَلَع وَتَلَع - فِي مَشْيَتِهِ -

چلنے میں گردن لمبی کرنا۔

التَّلِيَع - ارگرد بہت دیکھنے والا۔ اِنَاعُ تَلَع

بھرا ہوا برتن۔

التَّلْعَةُ - بلند زمین، پست زمین۔ جہ۔ تَلَعَا و

تَلَعَا و تَلَعَا -

تَلَف دَس، تَلَفَا - ہلاک ہونا۔ فنا ہونا۔

التَّلْفُ - خوبصورت۔

التَّلْفَةُ - کشتی کا بادبان۔ جہ تَلْعَات -

أَتَلَفَه - ہلاک کرنا۔ برباد کرنا۔

التَّلِيْفَةُ - ہلاک ہونے والی چیز۔

الْمُتَلَفُ وَالتَّلَافُ - بہت تلف کرنے والا۔

الْمُتَلَفُ وَالتَّلَافَةُ - تلف اور ہلاک ہونے

کی جگہ یا اس کا سبب۔ چٹیل میدان۔

تِلْكَ - مَوْنَتٌ بَعِيدٌ کے لیے اسم اشارہ۔

التَّلَح - زمین میں ہل کی بنائی ہوئی کبیر۔ جہ

اتلام۔

التَّلَح - لُحَا - کاشتکار رُسَارِشَار کی لمبی

دھونکنی۔ جہ۔ تلام۔

التَّلَهُود - یہودیوں کے احکام دینی کی کتاب۔

تَلَمَدٌ وَتَلَمَدٌ - لَفْلَان - کسی کا شاگرد

ہونا۔ تَلَمَدٌ وَتَلَمَدٌ - الْوَلَدُ - لُحَا کے

کوشا گرد بنانا۔

التَّلْمِيْذُ - شَاغِرُو - جہ۔ تَلَامِيْذٌ وَتَلَامِيْذَةٌ -

التَّلْمِيْذَةُ وَالتَّلْمِيْذَةُ - حاجت۔

تَوَلَّه دَس، تَلَّهَا - حِرَان ہونا۔ الشَّيْءُ - چیز

کا تلف ہونا۔ تَلَّهَا وَتَلَّهَا - عَنْهُ - بھولنا

کہتے ہیں "رَجُلٌ تَلَّه الْعَقْلَ وَمَتَلَوَّهُ

الْعَقْلُ - زَائِلٌ شَدَّ عَقْلٌ وَالَا - کھوئی

ہوئی عقل والا۔

أَتَلَّه - الشَّيْءُ - تَلَفَ کرنا۔ برباد کرنا۔

تَلَّوْن، تَلَّوَا - ه - پیچھے چلنا۔ عَنْهُ -

چھوڑ دینا۔ کہا جاتا ہے "تَلَّوْا بَعْدَ

تَوَلَّاهُ" یعنی اس نے اپنی قوم کا ساتھ

چھوڑ دیا اور پیچھے رہ گیا۔ (وَتَلَّوْا)

الْمَكْتَابُ - کتاب پڑھنا۔

تَلَّى دَس، تَلَّى - مِنَ الشَّهْرِ يَوْمٌ - مہینہ کا

ت

ایک دن باقی رہنا۔
 اَتْلَاہُ سبقت کرنا پیچھے کرنا۔ اَتْلَاہُ فُلَانًا۔
 پیچھے چلانا۔ اَتْلَاہُ عَلٰی فُلَانٍ۔ حوالہ کرنا۔
 تم کہتے ہو "اَتَلَبْتُ فُلَانًا ذِمَّةً" یعنی میں
 نے فلاں کے ذمہ کر دیا۔ اَتَلَبْتُ حَقِّی
 عِنْدَهُ۔ یعنی میں نے اپنے حق میں سے
 اس کے پاس کچھ باقی رکھا۔
 تَلَاہُ تَلْبِیْلَةً۔ پیچھے چلانا۔
 تَلٰی۔ الرجل۔ نذر پوری کرنا۔ آخری سانس میں ہونا۔
 تَلٰی۔ ہ۔ پیچھے چلنا۔ پیچھے پڑنا۔ کہتے ہیں۔
 "تَلَبَّیْتُ حَقِّی" میں اپنے حق کے پیچھے لگا،
 یہاں تک کہ میں نے اس کو پورا وصول کر لیا۔
 الرجل۔ آدمی کا بہت مال جمع کرنا۔
 حَقَّاهُ عِنْدَهُ۔ اپنے حق کچھ باقی رکھنا۔
 تَتَالَتْ۔ الامور او الخیل۔ ایک دوسرے
 کے بعد آنا۔ بے درپے آنا۔ کہتے ہیں۔
 "جَاءَتْ الخیلُ تَتَالِیًا" یعنی گھوڑے
 پے درپے آئے۔
 تَتَالَاہُ۔ تا بعداری کرنا۔ موافقت کرنا۔
 اُسْتَتَلَاہُ۔ الشیء۔ پیچھے کرنے کو کہنا۔ ہ۔
 انتظار کرنا۔
 التَّالِی۔ تالیع۔ گھوڑ دوڑ میں جو نفع منبر کا گھوڑا
 جہ۔ تالیات۔
 التَّالِیَّة۔ مونث تالی کا۔ جہ۔ توالی۔
 التوالی۔ سرین۔ توالی الخیل۔ گھوڑے کے
 پیچھے حصے یعنی دم اور ٹانگ۔
 التلاؤ۔ ذمہ۔
 ایتلو۔ ہر وہ چیز جو کسی چیز کے پیچھے ہو۔ اونٹنی
 کا دودھ چھڑا یا ہوا بچہ۔ جو اس کے پیچھے پیچھے
 چلتا ہے۔ جہ۔ اَتْلَاہُ۔ مونث تلوۃ۔
 التلو۔ ہمیشہ پیچھے چلنے والا۔
 التلی۔ بہت مال والا۔ بہت قسمیں کھانیاں والا۔
 التلاؤۃ۔ والتلیۃ۔ بقیہ مثلاً۔ تِلَاوۃُ
 الدین۔ قرآن کا بقیہ۔ کہتے ہیں۔
 "ذَهَبَتْ تِلْبِیْلَةُ الشَّابَابِ" یعنی جوانی کا

بقیہ جاتا رہا۔ اور کہتے ہیں "فَلَانٌ بَقِیْلٌ"
 انکرام و تلبیلۃ الاخوار۔ فلاں شرفاء
 اور بزرگوں کی یادگار رہے۔
 التلوی۔ ایک قسم کی چھوٹی نشتی۔
 المتالی۔ تابع۔ گویہ کی آوازیں آواز ملنے
 والا۔
 تَمَّ (رض) تَمَّ وَ تَمَّ وَ تَمَّ وَ تَمَّ مَا وَ
 تَمَّ مَا وَ تَمَّ مَا وَ تَمَّ مَا وَ تَمَّ مَا وَ
 کامل ہونا۔ پورا ہونا۔ بالشیء و علیہ
 پورا کرنا۔ علی امریکہ کام انجام دینا
 جاری و نافذ کرنا۔ الی موضع کذا۔
 کسی جگہ پہنچنا۔ عنہ العین۔ تعویذ
 کے اثر سے نظر بد کو دور کرنا۔
 تَمَّسَہُ وَ اَتَمَّہُ۔ پورا کرنا۔ اپنی مدت تک
 پہنچانا۔ کہتے ہیں "تَمَّسَہُ عَلٰی الجریحِ"
 اس نے
 تَمَّہُ المولود۔ بچہ پر تعویذ پڑکانا۔ اَتَمَّہُ
 الی المحل۔ کسی جگہ کا قصد و ارادہ کرنا
 اور روانہ ہونا۔ اَتَمَّتِ الخیل۔
 حاملہ کا جننے کے قریب ہونا۔ القمیر۔
 بدر کامل ہونا۔
 تَتَمَّ۔ القوم۔ سب کا آنا۔
 اُسْتَتَمَّ۔ الشیء۔ پورا کرنا۔ الشیء کسی شے
 کی تکمیل چاہنا۔
 اَتَمَّ۔ بڑی بط۔
 اَتَمَّ۔ کھاڑا۔
 التَّامَّ۔ بتخلیث التاء والاغلب الفتح
 کمال۔ جس سے کوئی شے تمام کی جائے اور
 اسی معنی میں دَسَّہُ وَ یَحَّہُ وَ تَمَّہُ وَ تَمَّہُ
 وَ تَمَّہُ۔ ہیں۔ چاند کے پورا ہونے کی
 رات۔ کہا جاتا ہے "یَدُرُّ تَمَّامٌ وَ یَدُرُّ
 تَمَّامٌ۔ لیلۃ التمام۔ جاڑے کی لمبی رات۔
 التمامۃ۔ بقیہ۔
 التتمۃ۔ جس سے کوئی شے پوری کی جائے۔
 التمیم۔ مضبوط۔ پورے قد و قامت والا۔

التیمۃ۔ تعویذ۔ جہ۔ تَمَّارٌ وَ تَمَّیمَات۔
 "إِمَاطَةُ التَّمَّارِ" کنایہ ہے بڑے
 ہونے سے۔

تَمَّ۔ تَمَّ۔ فی الکلام۔ جلدی جلدی ہونا۔
 اور بات کو واضح نہ کرنا۔ صفت و تَمَّام (مونث تَمَّامۃ۔

تَمَّرَ (ن) تَمَّرَ وَ تَمَّرَ۔ کھجور کھانا۔ اللحم۔
 گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ
 کے کھانا۔

اَتَمَّرَ وَ تَمَّرَ۔ الرطب۔ خشک کھجور ہونا۔
 النخلۃ۔ درخت خرما کا پھل دار ہونا۔ اَتَمَّرَ
 القوم۔ بہت کھجوروں والا ہونا۔

تَمَّرَ۔ اللحم۔ گوشت کا خشک ہونا۔
 التمر۔ خرما۔ واحد تَمْرۃ۔ جہ۔ تَمَرَات وَ
 تَمُور وَ تَمْرَان۔

التَمْرۃ۔ چابک کے سرے کی گرہ۔

التَمُورُ الیھناجی۔ اہلی۔

التَمَّار۔ خرما فروش، کھجوروں کا سوداگر۔

التامیر۔ بہت کھجوروں والا۔

المتمور۔ کھجور کا توشہ دیا ہوا۔

التامیری و التاموری۔ انسان۔ کہا جاتا ہے

"مَا بِالْأَرْتَامُورِ اَوْ تُوْمُورٍ یعنی گھر

میں کوئی انسان نہیں یا کوئی شے نہیں۔

تَمُورٌ وَ تَمُورٌ۔ ماہ جولائی۔

التماح۔ گھڑیاں۔ مگر۔ جہ۔ تَمَّاسِیح۔

تَمَّہُ (ن) تَمَّہُ وَ تَمَّہُ۔ الطعام۔ کھانے

کا بدبودار یا بد مزہ ہونا۔ صفت (تَمَّہُ)

تَمَّانٌ۔ بینھنا۔ دو کے درمیان مقابلہ کرنا۔

اندازہ کرنا۔

اَتَنَّ۔ المرضُ الصَّبِیُّ۔ بیماری کا بچہ کو بڑھنے

سے روک دینا۔ صفت مفعولی (تَنُّ)۔

الرجل۔ دور ہونا۔

الَّتِیْنِ شَخْصٍ مَثَلٍ ہمسرہ۔ جہ۔ اَتَنَان۔

الَّتِیْنِ مَجْلٰی، اُذْہَا۔ آسمان میں ایک جگہ کا نام۔

تَمَّارٌ شُنُوءًا۔ بالماکان۔ کسی جگہ اقامت کرنا۔





صفت (تانی) جر۔ تَنَاء۔

التَّنْبُكُ والتَّنْبَاكُ۔ تباکو۔

التَّنْبُكُ والتَّنْبَالُ والتَّنْبُولُ والتَّنْبَالَةُ

پستقد۔ کندہن۔ بست۔ جر۔

تَنَابِيلُ وَتَنَابِلُهُ۔

التَّنْبِيلُ والتَّنْبُولُ۔ پان۔

التَّنَجْدَةُ۔ بانڈی۔ دیک۔

تَنَجْرُونُ، تَنُوحًا وَتَنُجَةً وَتَنَجَّةً۔ بالماکان۔

کسی جگہ قیام کرنا۔ رہنا۔ آباد ہونا۔

تَنَجَّ دَس، تَنَجَّجًا۔ بد بھنی ہونا۔

أَتَنَجَّجَ۔ بد بھنی میں مبتلا کرنا۔

التَّنُوبُ۔ صنوبر کے مشابہ ایک درخت۔ واحد

تَنُوبَةٍ۔

التَّنُورُ۔ تنور۔ جر۔ تَنَاتِيرُ۔

التَّنَارُ۔ تنور بنانے والا۔

التَّنَضُّبُ۔ مادہ (دن ضرب) دیکھئے۔

التَّوْفَةُ والتَّوْفِيَةُ۔ بے آب ریگستان صحرا

جر۔ تَنَارُفُ۔

التَّنَكُّ۔ ٹین۔

التَّنَكُّبُجِ۔ ٹین بنانے والا۔

تَهْنَدَ۔ فضول باتوں میں مشغول ہونا۔

التَّهْنَاتُ۔ لغویات۔

تَهْمَدَ دَس، تَهْمَمًا۔ اللحم۔ گوشت کا خراب

ہونا۔ صفت (تَهْمَمَ)۔

أَتَهْمَمَ تَاهَمًا وَتَهْمَمَ تَهْمًا میں آنا یا اترنا۔

التَّهْمَةُ۔ بدلو۔

تَهَامَةٌ۔ مکہ معظمہ۔ حجاز کے جنوبی علاقے نسبت

کے لیے تھامی و تھام۔ جر۔ تَهَامِيُونَ

و تَهَامُونَ۔

أَتَهْمَمَ وَتَهْمَمَةً۔ مادہ (وہ م) دیکھئے۔

تَهْنَدَ دَس، تَهْنَدًا۔ سونا۔ صفت (تَهْنَدَ)

تَهْنَدَارُن، تَهْنَدًا۔ غافل ہونا۔

التَّهْوَاءُ۔ رات کا ایک حصہ۔ کہتے ہیں بعض تھوآء

من الليل۔ رات کا ایک حصہ گذر گیا۔

التَّوْءُ۔ اکیلا۔ ایک بڑی کی بڑی ہوئی رسی۔ جر۔ اَتَوَاءُ۔

کہا جاتا ہے۔ جَاءَ تَوَازًا۔ دو قصد کر کے آگیا

ہے اب کوئی چیز اس کو باز نہیں رکھ سکتی۔

تَابَ (دن) تَوْبًا وَتَوْبَةً وَتَابَةً وَتَابًا وَ

تَتَوْبَةً۔ الی اللہ۔ گناہ سے روگردانی کر

کے الشک طرف متوجہ ہونا۔ نادم و پشیمان

ہونا۔ صفت (تَابَ) اللہ علیہ۔ اللہ

تعالیٰ کا کسی کے گناہ معاف کر کے اس کو

اپنے فضل و کرم سے نوازنا۔ صفت (تَوَابَ)

اِسْتَعَابَهُ۔ توبہ کرنے کی ترغیب دینا۔

التَّوْتُ۔ تَوْتُ کا درخت۔ تَوْتُ۔ تَوْتُ

العَلِيقِ۔ جنگلی توت۔

التُّوتِیَا۔ ایک قسم کا پتھر جس سے سرمہ بنایا جاتا

ہے۔ ایک فارواری سمندری سیپی جس کے اندر

انڈے کی زردی کے مانند کوئی چیز ہوتی ہے

اور وہ کھائی جاتی ہے۔ توتیا معدینہ

جستہ سرمہ۔

تَابَجَ (دن) تَوَجًّا۔ تاج پہننا۔

تَوَجَّجَ۔ تاج پہننا۔ تَتَوَجَّجَ۔ تاج پہننا۔

التَّاجُ۔ تاج۔ جر۔ تَیْجَانُ۔ تاجہ الجبار۔ ستارہ

تاجہ العُودِ۔ ستون کے بالائی حصہ کی

مینا کاری۔

التَّایْجُ۔ تاج والا۔

تَاحَ (دن) تَوَحًّا۔ لہ الشیء۔ تیار ہونا۔

تَاخَتْ (دن) تَوَحًّا وَتَوَحًّا۔ الاصبغ فی الجسم

الوارم والوخو۔ انگلی کا سوچے ہوئے جسم

یا نرم حصہ بدن میں دھس جانا۔

التَّوْدِي وَالتَّوْدِي۔ ایک دوا کا نام ہے

تَارَ (دن) تَوْرًا۔ الماء۔ پانی کا جاری ہونا۔

أَتَارَہَ اِتَارَةً۔ بار بار لوٹنا۔

التَّوْرُ۔ ایک قسم کا چھوٹا برتن۔ قاصد۔

التَّارَہُ۔ دیکھئے تَارَ

التَّوَارِقُ۔ التَّوْرِيَّةُ۔ وہ آسمانی کتاب جو

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔

جر۔ تَوَارَاتُ وَتَوَارِيَاتُ۔

تَازَرَن، تَوَزَّ۔ الشیء۔ کسی چیز کا سخت ہونا۔

التَّوْسُ۔ طبیعت۔ اول۔

تَاعَ (دن ض) تَوَعًا۔ روٹی کے ٹکڑے سے مکھن یا

گھی اٹھانا۔

التَّيُّوعُ۔ ہزوہ بوئی جس کو کاٹنے پر سفید و دودھ نکلے

تَافَ (دن) تَوَفًا۔ البَصَرُ۔ نگاہ کا چندھیاجانا

نظر کا دھندلا ہونا۔

اِتَافَةُ والتَّوْفَةُ والتَّوْفَةُ۔ عجیب۔ کہتے ہیں

ما فیہ تَوْفِيَةٌ۔ اس میں کوئی عیب نہیں۔

تَاقَ (دن) تَوَقًّا وَتَوَقًّا وَتَوَقًّا وَتَوَقًّا

وَتِيْفَةً۔ لا والیہ۔ شائق ہونا۔

الی الغایۃ۔ جلدی کرنا۔ صفت (تَاقَ)

وَتَوَاقَ، عَيْنُهُ بِالْمَوْعِ۔ آنکھ کا

آنسو بہانا۔ صند۔ ڈرنا۔ بَنَفِيسَہ

جان دینا۔

تَتَوَقَّ۔ اِلَى الشَّيْءِ۔ آرزو مند ہونا۔ شائق ہونا۔

تَالِ يَتَوَلَّى تَوَلًّا۔ جادو کرنا۔ جادو کا علاج کرنا

التَّوَلَّى۔ والتَّوَلَّى۔ مصیبت، آفت۔ جر

تولات۔

التَّوَمَةُ۔ موتی کے مانند چاندی کا ایک دانہ۔ بالی

شتر مرغ کا انڈا۔ جر۔ تَوَمٌ وَتَوَمٌ۔ عوام

توم کو توم کی بجائے استعمال کرتے ہیں۔

التَّوَمُ۔ ملاپنا ہوا۔ کان میں بالی پہنے ہوئے۔

تَتَاوَنَ وَتَتَاوَنَ۔ الصيد۔ شکار پر دائیں

اور کبھی بائیں جانب سے حملہ کرنا۔

أَتَوَنَ۔ الحمام۔ حمام کی بھٹی۔

تَاكَ (دن) تَوَهًّا۔ ہلاک ہونا۔ ضائع ہونا۔

راستہ بھٹکنا۔ بکیر کرنا۔ پریشان عقل والا

ہونا۔

التَّوَهُ والتَّوَهُ۔ ہلاکت۔ فَلَاةٌ تَوَهُ۔

ہلاک کرنے والا یا راستہ بھٹکا دینے والا

بیابان۔ بے آب ریگستان۔ جر۔ اتواہ

وجہ۔ اَتَاوِيَهُ۔

تَوَهَّہَ وَآتَاهُ۔ ہلاک کرنا۔

تَوِي دَس، تَوِي۔ المال۔ ہلاک ہونا۔ ہرباد

ہونا۔ صفت (تَوِي وَتَوِي)۔ کہا جاتا ہے۔

”لَا تَوَلَّى عَلَيْهِ“ یعنی اسے کوئی نقصان و خسارہ نہیں۔

أَتَوَّاهُ اتَّوَاهُ - اللہ ہلاک کرنا۔
الْمَتَوَّاهُ - سبب ہلاکت، باعث نقصان کہتے ہیں ”الشَّعْرُ مَتَوَّاهٌ“ کنجوسی باعث نقصان و ہلاکت ہے، جہر متا و د مَتَوَّاهَاتُ -

التَّبَيَّاتُ - تھیٹر عربی اس کی مَثَل ہے اور مولدین کے نزدیک مَسْرُوح -

تاتام (رض) تَبَيَّاهُ - مقرر و مقرر ہونا۔
تیار ہونا - فی مَشِيء - چلنے میں بھگنا۔

أَتَاَحَهُ أَتَاَحَهُ - تیار کرنا، مقرر کرنا کہتے جاتے ہیں ”أَتَاَحَهُ اللَّهُ لَهُ الشَّيْءُ“

الْمَتَّاحُ وَالْمُتَّاحُ - امر مقرر - فیصل شدہ امر -

النَّيَّاحُ وَالنَّيَّاحَانُ وَالنَّيَّاحَانُ وَالنَّيَّاحَانُ وَالْمَيْتِيحُ - بے جا دخل دینے والا۔ لا

یعنی امور میں مشغول رہنے والا کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ مَيْتِيحٌ“ ہمیشہ بلا میں مبتلا رہنے والا آدمی۔

تَاَخَذَ (رض) نَيْحًا - لالچی یا کھجور کی چھڑی سے مارنا۔

الْمَيْتِيحُ -

النَّبِيدُ - نرمی کہا جاتا ہے ”تَبِيدَ زَيْدٌ“ زید سے نرمی کر۔

تَمَارَ (رض) تَبَيَّاهُ - البحر و سمندر کا موجزن ہونا۔ جوش میں آنا۔

التَّبَيَّارُ - جوش زن سمندر کی لہر مغرور کہا جاتا ہے ”قَطَعَ عَرَفًا تَبَيَّارًا“ اس نے تیز بننے والی رگ کو کاٹا۔ وفور تَبَيَّارٌ - دوڑ

میں موج کی طرح چلنے والا گھوڑا۔

التَّبَيُّورُ - تکر و غرور۔
تَارَةً - دیکھیے تَارَ -
تَارَهُ (رض) تَبَيَّارًا تَابَهُ - غلبہ کرنا کہا جاتا

ہے ”تَارَهُ السَّمْعُ فِي الرَّمِيَّةِ“ تیرنے پھینکنے وقت حرکت کی۔

التَّبَيَّارُ - پست قد، سخت جوڑوں والا۔
تَبَيَّاسٌ يَتَبَيَّسُ - الجدُّی - بکرا بن جانا۔

تَبَيَّسَ - فرسہ گھوڑے کو سدھانا۔
عن كذا - باز رکھنا۔ روکنا۔

تَابَهُ - مافات کرنا۔
تَبَيَّاسٌ - الماءُ موجوں کا آپس میں ٹکرانا۔

وَالسُّتَيْتَسَتْ - العنقُ - بکری کا بکرے کی طرح ہوجانا۔

التَّبَيَّاسُ - بکرا، برن، جنگلی بکرا۔ جہر تَبَيَّاسٌ و تَبَيَّاسٌ و تَبَيَّاسٌ - حبة التَّبَيَّاسِ -

ایک قسم کی نبات۔
التَّبَيَّاسَةُ التَّبَيَّاسِيَّةُ - بکرے جیسی طبیعت

کہتے ہیں ”فِي فَلَانٍ تَبَيَّاسِيَّةٌ وَتَبَيَّاسِيَّةٌ“۔
التَّبَيَّاسُ - بکرے والا۔

التَّبَيَّاسُ - بکرے جیسا۔
تَتَاعَ (رض) تَبَيَّاهُ وَتَبَيَّاهُ - القِي -

قے کا آنا۔ الماءُ - پانی کا بہہ کس طرح زمین پر پھیل جانا۔ الیہ - جلدی کرنا۔ اور

مشتاق ہونا۔ تَبَيَّاهُ - الطَّبِيقُ - راستہ طے کرنا۔ السَّعْنُ - روٹی کے ٹکڑے سے گھی اٹھانا۔

أَتَاعَ - مَا أَكَلَهُ - کھائی ہوئی غذا کی قے کرنا۔
الشَّيْءُ - لوٹانا۔

تَتَبَّعَ - إِلَى الشَّيْءِ وَتَتَبَّعَ فِي الشَّيْءِ -

برائی کی طرف پکنا اور تیزی کرنا۔ صفت تَبَيَّعَ وَتَبَيَّعَانُ - الرِّيحُ بالورق

ہوا کا پتے اڑانے جانا۔ تَتَبَّعَ فِي الْأَمْرِ - کسی کام پر اصرار کرنا۔ کہا جاتا ہے ”أَكَلْتُ يَتَبَّاعِي فِي الْأُمُورِ“ وہ معاملات میں

اپنے آپ کو بے سوچے سمجھے ڈال دیتا ہے۔
تَاكَ (رض) تَبَيَّاهُ - احق ہونا۔ صفت (تَنَائَكَ) أَتَاكَ - الشَّعْرُ - بال اکھڑنا۔

تَبَيَّاهُ - مؤنث کے لیے اسم اشارہ۔ تصغیر اس کی تَبَيَّاهُ ہے اور اس پر بے تنبیہ داخل

کر کے ہاتھ تَبَيَّاهُ کہتے ہیں۔
تَامَهُ (رض) تَبَيَّاهُ وَتَبَيَّاهُ - الْحَبُّ - غلام

بنانا۔ ذلیل کرنا۔
التَّبَيُّمُ - مم - عشق کے سبب عقل کا فتور۔ غلام

کہتے ہیں ”هُوَ تَبَيَّاهُ اللَّهُ“ وہ اللہ کا بندہ ہے۔

الْيَتِيمَةُ وَالْيَتِيمَةُ - وہ بکری جو گھر ہی میں چرائی جائے اور گھر ہی میں دوہی جائے۔

تیز وہ بکری جو بھوک کی حالت میں ذبح کی جائے۔

الْيَتِيمَاءُ - بیابان - ایک مقام کا نام بھی ہے۔
الْيَتِيمُ - انجیر - درخت انجیر - واحد تَبَيَّاهُ -

الْمَتَانَةُ - انجیر کا باغ - انجیر بکثرت پیدا ہونے کی جگہ - کہتے ہیں ”أَرْضٌ مَتَانَةٌ“

بست انجیر والی زمین۔
التَّبَيَّانُ - انجیر بیچنے والا - انجیر خشک کرنے والا۔

تَاَهُ (رض) تَبَيَّاهُ - تکر کرنا (تَبَيَّاهُ وَتَبَيَّاهُ) -

مرگشتہ پھرتا۔ گمراہ ہونا۔ صفت تَبَيَّاهُ وَتَبَيَّاهُ -

تَبَيَّاهُ وَتَبَيَّاهُ - گمراہ کرنا۔ ضائع کرنا۔
التَّبَيَّاهُ وَالتَّبَيَّاهُ وَالتَّبَيَّاهُ وَالتَّبَيَّاهُ -

مغرور۔ متکبر۔
الْيَتِيمَةُ - غرور۔ ڈینگ۔ گمراہی۔ چٹیل

میدان - جس میں چلنے والا بھٹک جائے جہر - أَتَبَيَّاهُ وَأَتَبَيَّاهُ وَأَتَبَيَّاهُ -

أَرْضٌ تَبَيَّاهُ وَتَبَيَّاهُ وَتَبَيَّاهُ وَتَبَيَّاهُ - وہ زمین جس میں

لوگ اکثر راستہ بھٹک جائیں۔



ث

ث

<p>یَرَابُ الشَّأَى - وہ فساد کی اصلاح کرتا ہے۔</p> <p>ثَبَّتَ (ن) ثَبَاتًا - جم کر بیٹھنا۔ باوقار بیٹھنا۔ الامر۔ کام ختم ہونا۔ پورا ہونا۔</p> <p>ثَبَّتَ (ک) ثَبَاتَةً وَثْبُوتَةً - بہادر ہونا۔ مستقل مزاج ہونا۔</p> <p>ثَبَّتَ (ن) ثَبَاتًا وَثْبُوتًا - فی المكان۔ کسی جگہ ٹھہرنا۔ اقامت کرنا۔</p> <p>على الامر۔ کسی کام پر ہدایت کرنا۔</p> <p>بہمیشگی اختیار کرنا۔ صفت۔</p> <p>(ثَابِتٌ وَثَبْتُ) الثَّابِتُ - ثابت ہونا۔ موکد ہونا۔</p> <p>ثَبَّتَ وَاثْبَتَ - ثابت کرنا۔</p> <p>الحق - دلائل سے موکد کرنا۔</p> <p>رجسٹر میں نام درج کرنا۔ لکھنا۔ کہتے ہیں طَعَنَهُ فَاثْبَتَ فِيهِ الرَّسْمَ - اس نے اس کو نیزہ مار کر چھید دیا۔</p> <p>اثْبَتَ وَثَابَتَ - الامر۔ کسی معاملہ کو کما حقہ جاننا۔</p> <p>استثْبَتَ وَتَثَبَّتَ - فی الامر والرائی۔ کسی کام یا رائے میں آہستگی سے کام لینا۔ مشورہ کرنا۔ خوب چھان بین کرنا۔</p> <p>الثَّبَات - ثابت ہونا۔ دلیل۔ حُجَّت - کہتے ہیں لا احکمہ الا بتبیین - یعنی میں بغیر دلیل و حجت کے فیصلہ نہیں دیتا۔</p> <p>الثَّبَات - برقع کے بندیا ڈوریاں۔ کجاوہ باندھنے کے تسمے۔</p> <p>الثَّبَات - وہ بیماری جو بیمار کو حرکت نہ کرے۔ بہادر شہسوار جس کا حملہ خطا نہ جاتا ہو۔</p>	<p>الشَّارُ وَالشُّورَةُ - خون کا بدلہ۔ جرم کا بدلہ۔</p> <p>جر۔ آثار و آثار و شائر۔ کہتے ہیں ہو ثائسری - یعنی وہ مختارے رشتہ دار کا قاتل ہے۔ "ویا ثاراتُ فلان" اے فلاں کے قاتلو۔</p> <p>والشَّارُ الْمُنِيْمُ - خون کا وہ تسلی بخش بدلہ جس کے بعد طالب چین کی نیند سوئے۔</p> <p>ثَنِيْطُ (س) ثَنِيْطًا - اللحمُ - گوشت کا خراب ہونا۔</p> <p>ثَنِيْطُ - الرجلُ - آدمی کو زکام ہونا۔ صفت۔ (مَنَسُوْطُ)</p> <p>الشَّوْطُ - زکام۔</p> <p>الشَّاطِطَةُ - بدبودار کپڑا۔ اور اسی سے یہ مثل ہے شَاطِطَةُ مُدَّتِ بِمَاءٍ - یہ مثل اس وقت بولی جاتی ہے کہ ایک خرابی کے ساتھ دوسری اسی جیسی خرابی نمودار ہو جائے۔</p> <p>جر۔ ثَاطُ - الشَّاطِطَاءُ - بیوقوف۔</p> <p>ثَوَلَّ وَتَنَالَلَ - جسد کا جسم کا مٹے والا ہونا۔</p> <p>الثَّوَلُول - مسہ۔ پستان کا سرا۔ ٹہنی۔</p> <p>جر۔ ثَالِيل - ثَائِي (ف) ثَائِيًا وَثَائِيً - الشَّيْءُ - بھڑانا۔ چیرنا۔ کمزور کرنا۔ خراب کرنا۔</p> <p>"وَثَائِي فِي الْقَوْمِ" لوگوں میں فساد کرنا۔ قتل کرنا۔</p> <p>ثَنِيْ (س) ثَائِي - الشَّيْءُ - چھدنا۔</p> <p>الثَّائِي - نشان زخم۔</p> <p>الثَّائِي - مص کہا جاتا ہے فلاں</p>	<p>ثَنِيْب (س) ثَنِيْبًا - وَثِيْبٌ وَثَنِيْبٌ - جمائی لینا۔ صفت (مثنوب) و ثَنِيْبُ الْاَخْبَاسِ - خبروں کی جستجو کرنا۔</p> <p>الثَّنَابُ وَالشُّوْبَاءُ وَالثَّنَائِبُ - جمائی۔ ثَنَائِفُ - پیاسا رکھنا۔ پانی پلانا۔ الثَّنَاسُ - آگ بجھانا۔</p> <p>الغَضَبُ - غصہ ٹھنڈا کرنا۔</p> <p>ه عَنْ الامر - کسی کو کسی کام سے روکنا۔</p> <p>ثَنَاجَتُ (ن) ثَنَاجًا - الغَلْمُ - بکری کا میاں۔</p> <p>الثَّوَاَجِرُ - بکری کی آواز۔</p> <p>ثَنِيْدُ (س) ثَنَإِدًا - اللَّبِيْتُ - نبات کا ترو و شاو اب ہونا۔</p> <p>الرجلُ او المكانُ - ٹھنڈا ہونا۔ صفت۔ (ثَنِيْدٌ وَثَنِيْدٌ)</p> <p>الثَّادُ وَالثَّادُ - نناک مٹی۔ تری شبنم ٹھنڈا۔ برا کام۔ نرم و شاو اب نبات۔</p> <p>الثَّادَةُ - موٹی عورت۔</p> <p>الثَّادَاءُ - نوٹھی۔ ما انا ابن ثاداء میں عاجز اور کمزور رائے والا نہیں ہوں۔</p> <p>الثَّادَةُ - موٹاپا۔</p> <p>ثَنَاسَرَفٌ، ثَنَاسَرًا - القيل و بالقتيل - خون کا مطالبہ کرنا۔ قاتل کو قتل کرنا۔</p> <p>صفت ثَنَاسَرٌ - کہا جاتا ہے۔</p> <p>ثَنَادَةُ بَكْذَا - اس نے فلاں کے ذریعہ خون کا بدلہ لے لیا۔</p> <p>ثَنِيْرٌ زَيْدٌ - زید سے خون کا بدلہ لیا گیا۔</p> <p>آثَارٌ وَآثَاسٌ - مِنْدُ - خون کا بدلہ لینا۔</p> <p>اسْتَشَاسٌ - خون کا بدلہ لینے کے لیے فریاد کرنا۔ یا مدد مانگنا۔</p>
---	--	---

الْإِثْبَاتُ - إيجاب - نفی کی ضد
الْإِثْبَاتُ - قوم کے معتبر لوگ - مفرد ثَبْتُ
کہا جاتا ہے "فَلَانٌ ثَبْتُ مِنَ الْإِثْبَاتِ"
یہ مجاز ہے جس طرح کہتے ہیں فُلَانٌ
حُجَّةٌ - جبکہ کوئی روایت میں ثقہ
ہو۔

الشَّوَابِتُ - سیاروں کے علاوہ ستارے
حرکت نہ کرنے والے ستارے - واحد
ثَابِتٌ -

الْمَثْبُوتُ - مفع - تمہوں سے بندھا ہوا -

مريض مثبت - صاحب فراش بیمار
تَبَجَّ (ن) تَبَجًّا وَ تَبَجَّجًا - الكلام
ٹھیک کلام نہ کرنا - بے ترتیب بولنا
الخط - بے ترتیب لکھنا - تحریر میں
غیر معروف طریقہ برتنا -

تَبَجَّ (ض) تَبَجًّا وَ تَبَجُّجًا - پاؤں کی
انگلیوں پر بیٹھنا -

تَبَجَّ وَ تَبَجَّجًا - الراعي بالعصا
گڈرے کا لاٹھی کو پیٹھ پر رکھ کر اس
کے پیچھے اپنے ہاتھ رکھنا -

إِثْبَاتُ - السَّعَاءُ - مشک کا بھرجانا -

الرجل - آدمی کا موٹا اور ڈھیلا ہونا -

التَّبَجُّج - کاندھے اور پیٹھ کا درمیانی حصہ -

ہر چیز کا درمیانی حصہ - بڑا حصہ - بلند

حصہ - ج - اَثْبَاجٌ وَ ثَبُوجٌ - کہا جاتا

ہے یہ کہوں تَبَجَّجَ هَذَا الْبَحْرُ -

وہ اس سمندر کے بڑے حصہ پر سوار

ہوئے وَ تَسَمَّتِ الْحُمُرُ اَثْبَاجَ

الْأَكَاام - گدھے ٹیلوں کی چوٹیوں پر

چڑھ گئے -

الْأَثْبَجُّج - چوڑی پیٹھ والا - کبڑی پیٹھ والا

رجلٌ مَثْبَجٌّ - بے ڈول لمبے قد

والا آدمی -

ثَبْرٌ (ن) ثَبْرًا - لعنت کرنا - دھتکارنا

ناکام کرنا - ہلاک کرنا - عَن كَذَا

مَنعَ كَرْنَا - روکنا - باز رکھنا - (ثَبْرًا)
ہلاک ہونا -

ثَبْرَتٌ - (س) ثَبْرًا - الْقَرْحَةُ -
زخم کا کھل کر بہہ پڑنا -

ثَابِتٌ - ثَبَارًا وَ مَثَابَةً - عَلَى الْأَمْرِ
کسی کام پر مداومت اور ہمیشگی
اختیار کرنا -

ثَبْرٌ - فَلَانًا بِالْشَيْءِ - کسی کو کسی شے
پر روک دینا - اللَّهُ فَلَانًا - ہلاک
کرنا -

تَبَجَّ بَرُوا - ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا -

الْثَبْرَةُ - نرم زمین - زمین یا پہاڑ میں گرنا -

الْمَثْبَرُ - مذبح - بوچڑخانہ - عورت کے بچہ

جننے یا اوٹنی کے بچہ دینے کی جگہ -

الْمُثَبَّرُ - محروم - روکا ہوا -

الْثَبْرَةُ - کھلیان میں صاف کٹے ہوئے

غلمہ کا ڈھیر -

ثَبْطَةٌ (ن) ثَبْطًا وَ ثَبْطَةً -

عَنِ الْأَمْرِ - کسی امر سے باز رکھنا -

عَنِ الْأَمْرِ - کسی کو کسی کام پر موقوف

رکھنا -

أَثْبَطَهُ - الْمَرَضُ - بیماری کا کسی کو

چمٹ جانا اور اس کو نہ چھوڑنا -

تَثَبَّطَ - عَنِ الْأَمْرِ - کسی کام میں دیر

لگانا یا اس سے رکنا -

الْثَبْطُ - کمزور - بیوقوف -

ج - اَثْبَاطٌ وَ ثَبَاطٌ - مُؤَنَّثٌ -

ثَبْطَةٌ - ثَبَقَ (ض) ثَبَقًا وَ

تَثْبِقًا - النَّهْرُ - نہر کا پانی بڑھ

جانا اور اس کا تیز ہونا -

الْعَيْنُ - آنکھ کا تیزی سے آنسو

بہانا -

الْثَبْلُ وَ الثَّبَلُ - برتن میں نیچے باقی

رہی ہوئی چیز -

ثَبْنٌ (ض) ثَبْنًا وَ ثَبْنًا - الثَّوْبُ -

کپڑے کے ایک طرف کو موڑ کر اس کو
سینا - (وَ تَثْبِنُ) الشَّيْءُ - جھولی
میں رکھ کر لے جانا - پانچامہ کے نیچے
میں رکھ لینا -

الْثَبْنَةُ - ج - ثَبْنٌ وَ (الْثَبَانُ)

ج - ثَبْنٌ - جھولی - دامن کی گودی جو

کسی چیز کے لینے کے لیے پھیلائی

جائے -

الْثَبْنُ - چادر کا موڑا ہوا طرف -

الْمَثْبَنَةُ - وہ پھیل جس میں عورت آئینہ وغیرہ

رکھتی ہے ج - مَثْبَانٌ -

ثَبْنٌ (ض) ثَبْنًا - الشَّيْءُ - جمع

کرنا - ثَبْنٌ - الشَّيْءُ - جمع کرنا -

تغظیم کرنا - اصلاح کرنا - تمام کرنا - کہا

جاتا ہے -

"ثَبْنٌ اللَّهُ لَهُ الْيَعْنُ - اللہ

تعالے نے اس کے لیے نعمتوں کے

توڑے لگا دیے -

عَنِ الْأَمْرِ - کسی کام میں لگنا یا مشغول رہنا

عَنِ فُلَانٍ - کسی کے خلاف مدد طلب

کرنا -

الْثَبَّةُ - حوض کا بیج - جماعت - سواروں

کا گروہ -

ج - ثَبَاتٌ وَ ثَبُوتٌ -

الْأُثْبِيَّةُ - بڑی جماعت - ج - آثَابِي -

الْثَبِي - لوگوں کی بہت تعریف کرنے والا -

ثَبْنٌ (س) ثَبْنًا - اللَّحْمُ - گوشت

ہونا -

ثَبْرٌ (ن) سَبُوجًا - الْمَاءُ - پانی کا بہنا -

(سَبَجًا) الْمَاءُ - پانی بہانا - اَنْثَبَجَ

الْمَاءُ - پانی کا بہنا - مَطْوُ ثَبَجًا ج

بہت برسنے والی بارش عین

تَجُوجٌ - بہت پانی والا چشمہ -

الشَّجَّةُ - باغ جس میں حوض ہو

ج - ثَبَجَاتٌ -





الثَّجِيجُ: زبردست سیلاب۔
 المَثَجَّ: خوش بیان یکچراغ۔ خطیب۔
 تَجْتَجُّ: الماء۔ پانی بہانا تَجْتَجُّ تَجْتَجُّ
 بہنا۔ جاری ہونا۔
 تَجَرُّ (ن) تَجَرُّ: التَّمَرُّ بجور کو بسر کی
 کھلی کے ساتھ ملانا۔
 تَجَوَّ: چوڑا کرنا۔ وسیع کرنا۔
 التَّجْوَةُ: درمیان۔ وسط کہتے ہیں "اقاموا
 فی تَجْوَةِ الوادی" وہ وادی کے
 بیچ میں ٹھہرے۔ کہا جاتا ہے۔
 "طعنوہم فی التَّجْرِ والتَّجْوِ"
 التَّجْرِ والتَّجْوِ: من الورق
 و غنوه۔ موٹا اور چوڑا پتہ۔
 تَجَلَّ (س) سَجَلًا۔ بڑے پیرٹ
 والا ہونا۔ صفت۔ اَسْجَل۔
 مؤنث۔ تَجَلَاء۔ ج۔ تَجَلَّ۔
 کہا جاتا ہے۔ مَزَادَةُ تَجَلَاء۔
 کشادہ توشہ دان۔
 تَجَمَّت (ض) تَجَمَّادُ اتجمت۔ السماءُ
 بارش۔ جلدی برسنا۔
 تَجْمَدَ عَنْہ۔ کسی کو کسی چیز سے جلد
 پھیر دینا۔
 تَجَارَن (ن) تَجَوًّا۔ خاموش رہنا۔
 اتجاء۔ چپ اور خاموش کرنا۔
 ثَخَنَ (ک) ثَخْنًا و ثَخَانَةً و
 ثَخُونَةً۔ موٹا ہونا۔ سخت ہونا۔
 صفت۔ (تَخِين) ج۔ ثَخْنَاء۔
 اَتَخَنَ۔ فی الامر۔ مبالغہ کرنا۔
 فی العدو۔ قتل میں زیادتی کرنا۔
 فی الارض۔ خونریزی میں حد سے
 آگے بڑھنا۔
 اَتَخَنَتْهُ الجراحُ زخم کا انسان کو
 کمزور و نڈھال کرنا۔
 اتخن۔ کمزور و سست ہونا۔
 اِسْتَخَنَ مِنْہ المرضُ او النوم

بیماری یا نیند کا غالب آنا۔
 شَدَّغ (ف) شَدَّغًا۔ راسخہ۔
 کچلنا۔ پھوٹنا۔ اِنشَدَّغ کچلا
 جانا۔
 شَدَّق (ن) شَدَقًا۔ المطرُ۔ بارش
 کا پڑنا۔
 السحابُ۔ بادل کا بارش برسانا۔
 صفت (ثَادِق) الثَّدِاقِم۔ بے وقوف
 اِنشَدَّق۔ الناسُ علیہ۔ لوگوں کا
 کسی پر حملہ کرنا۔
 شَدَّہ۔ الا بدیق۔ لوٹے پر صافی ڈالنا۔
 الشَّدْم۔ کلام و محبت میں عاجز۔ بیوقوف۔
 سست۔ مؤنث۔ شَدْمہ۔
 الشداه۔ چھلنی۔ صافی۔ فلتر۔
 شَدَن (س) شَدَنًا۔ اللحمُ۔
 گوشت کا بو دینا۔ بدبودار ہونا۔
 (وَتَدَن) الرجُلُ۔ پُر گوشت
 اور بھاری بدن والا ہونا۔ صفت۔
 (شَدَن و مَشَدَن)
 اَشَدَّن۔ الشیء۔ چیز کو چھوڑ کرنا۔
 شَدَا (ن) شَدَا۔ تَرَکَرَا۔
 تَدَّى (س) شَدَّى۔ تَر ہونا۔
 الشَّدَّى و الشَّدَّى۔ پستان۔
 (مذکر و مؤنث) ج۔ تَدَّى و تَدَّى
 وَاثَدَّ۔
 الشَّدَّیاء۔ بڑے پستان والی عورت۔
 تَدَّر (ض) تَدَّرًا و تَدَّرًا و تَدَّرًا۔
 و تَدَّرًا۔ الشیءُ کشادہ ہونا۔
 السحابُ او العینُ۔ بادل
 یا آنکھ کا بہت پانی والا ہونا۔ صفت
 مؤنث (تَدَّر و تَدَّر) صفت
 مذکر۔ (تَدَّر) ج۔ تَدَّر۔
 کہا جاتا ہے مطرُ شَدَّر۔ موٹلا
 و صاف بارش (فوسُ شَدَّر) لیے
 لیے قدم رکھنے والا۔ شَاةُ

ثَوَّةٌ بہت دودھ دینے والی
 بکری۔
 ثَوَّہ۔ (ن) ثَوًَّا متفرق کرنا۔
 السحابُ ماءً ہا۔ بادل کا
 پانی برسانا۔
 تَوَّس۔ المكان۔ جگہ کو ترک کرنا۔
 التَّوَّ۔ بہت بولنے والا۔ باتونی۔
 التَّارَّة۔ بہت بولنے والی عورت۔ باتونی
 عورت۔
 التَّوَّارۃ۔ من العیون۔ بہت پانی
 والا چشمہ۔
 تَوَّیہ (ض) تَوَّیًا و تَوَّیہ۔ و تَوَّی
 علیہ و اثربہ۔ کسی کے فعل کو
 قبیح اور بُرا بتانا۔
 اَتَوَّیہ الکبشُ۔ بیڑھے کی اوجھڑی اور
 انٹریوں پر چربی کا زیادہ ہونا۔
 صفت (اَتَوَّیہ) مؤنث۔ تَوَّیاء۔
 التَّوَّیہ۔ اوجھڑی اور آنتوں کے اوپر کی
 چربی۔ ج۔ تَوَّیہ و اَتَوَّیہ۔
 جج۔ اَتَوَّیہ۔
 اَتَوَّیہ۔ گڑ بڑ کرنے والا۔ شری فساد
 تَوَّیہ۔ تَوَّیہ۔ الشیء۔ بکھیرنا
 متفرق کرنا۔ بکھلا دینا۔
 کرنا۔ فصول کبک کرنا۔ صفت
 (تَوَّیہ)
 تَوَّیہ۔ (ن) تَوَّیًا و اَتَوَّیہ۔
 اَتَوَّیہ۔ روٹی کو توڑ کر شوربے میں
 بھگونا۔ صفت مفعولی۔ (تَوَّیہ و
 مَتَوَّیہ) تَوَّیہ۔
 تَوَّیہ۔ کپڑے کو رنگ میں
 بھگونا۔
 التَّوَّیہ۔ و التَّوَّیہ۔ شوربے
 میں بھگوئی ہوئی روٹی۔ ج۔ تَوَّیہ
 و تَوَّیہ۔
 تَوَّیہ۔ و تَوَّیہ۔ من المعركة

میدان کارزار سے زخمی اٹھایا جانا۔
الْثُّودُ - بکی بارش۔
الْثُّودُ - ہونٹوں کی پھٹن۔
الْأَثْرَدُ - بچھے ہونٹ والا۔
ارض (مَثْرَدَةٌ و مَثْرَدَةٌ)
وہ زمین جس پر خفیف سی بارش
پڑتی ہو۔

الْثُّوْطُ - سریش۔
ثَرَعٌ - (س) ثَرَعًا - الرجل - طفیلی
بنا۔ بغیر بلائے دعوت میں جانا۔
(الْثُّوْعَلَةُ) مرغ کی گردن کے پر
الْثُّوْعُلُ - لومڑی۔ ردباہ۔ الْثُّوْعُولُ -
ایک قسم کی گھاس۔
ثَرَمَهُ - (ض) ثَرَمًا و آثَرَمَهُ -
دانت کو جڑ سے توڑنا۔
ثَرِمَ (س) ثَرِمًا و انْثَرِمَ - دانت کا
جڑ سے ٹوٹنا۔ صفت۔ (آثَرَمَ)
مؤنث۔ ثَرَمَاءُ - ج۔ ثَرَمَ -
الْثَرَمَانُ - ایک درخت ہے جس کو اونٹ
اور بکری کھاتے ہیں۔

الْأَثْرَمَانُ - رات دن۔ زمانہ موت۔
ثَرَا - (ن) ثَرَاء و ثَرِي (س) ثَرِي
الرجل - آدمی کا بہت مال والا
ہونا۔ ثَرَاهُ - مالدار میں کسی سے
فوقیت لے جانا۔ ثَرَاهُ اللَّهُ
القوم - اللہ نے قوم کو زیادہ

کیا۔
آثَرِي - (ثَرَا) - بہت مالدار ہونا۔
صفت۔ (ثَرِي و مَثَرِي)
مؤنث۔ ثَرَوَاءُ -
الثراء - والثروة - مال کی زیادتی یا
قوم کی کثرت۔
الْثَرِيَا - پروین۔ ستاروں کا جھکا۔
برج ثور کے گردن کے سات ستارے
جھاڑ۔

الْثَرَوَانُ - بہت مال والا۔
ثَرِي (س) ثَرِي و آثَرِي - الثَّرَابُ -
مٹی کا خشک ہونے کے بعد تر و نرم
ہونا۔ صفت۔ (ثَرِي و آثَرِي)
مؤنث ثَرِيَّةُ - و ثَرِيَاءُ -
اثریت الارض - زمین کا غمناک
ہونا۔ آثَرِي المَطَرُ - بارش کا
زمین کو نمناک کرنا۔

ثَرِي - (ه) ثَرِي - تركنا - المكان
چھڑکاؤ کرنا۔
الْثَرِي - تری - نمناکی۔ (والثراء)
نمناک مٹی خیر۔ ج۔ اِثْرَاءُ -
کہا جاتا ہے یلبس الثری
بینہم۔ ان کے درمیان مٹی
خشک ہو گئی۔ یعنی وہ دوست سے
دشمن ہو گئے۔ "فلان قریب
الثری" - خیر سے قریب ہے۔
الْثَرِي و الْثَرِي مِنَ الْمَالِ -
بہت مال۔ رماح ثَرِيَّةُ بہت
نیزے۔

الْثَرِيَا طَلَةُ - کیچڑ۔
ثَطَّ - (ن) ثَطَّ - پائخانہ کرنا۔
ثَعَّ (ض) ثَعًّا - خے کرنا۔
الْثَعَّ - الاكل من فمه والدم
من انفه وجرحه - کھائی
ہوئی غذا منہ سے نکلنا اور خون ناک
یا زخم سے بہنا یا جاری ہونا۔

ثعب - (ن) ثَعَبًا - الماء - پانی کو
جاری کرنا۔ علیہم الغارة -
لوٹ ڈالنا۔ اِنْثَعَبَ - الماء -
پانی کا نالی یا پر نالہ میں جاری ہونا۔
الْثَعْبُ - وادی میں پانی کے بہاؤ کی
جگہ۔ ج۔ ثَعْبَانُ - ماءٌ او
دم۔ ثَعْبٌ و ثَعْبٌ (الْعُوبُ)
بہتا ہوا پانی یا خون۔

الْثُعُوبُ - پت۔
الْثُعْبَةُ - خبیث قسم کا گرگٹ۔
الْمُثْعَبُ - نالی یا پر نالہ۔
الْثُعْبَانُ - اژدھا (مذکر و مؤنث) ج۔
ثَعَابِینَ -

ثَعَطَ (س) ثَعَطًا - اللحم او الماء -
گوشت یا پانی کا بدبودار ہونا۔
الْشَّفْطَةُ - سوجنا اور چھٹنا۔
الْشَّعْطَةُ - گندہ انڈا۔
ثَعَلَتْ (س) ثَعَلًا - اسنانہ -
دانتوں کا ایک دوسرے پر نکلنا۔
صفت (اِثْعَلُ) مؤنث ثَعْلَاءُ
ج۔ ثَعْلُ -

اِثْعَلُ - الامر - کسی کام کا سخت دشوار
ہونا۔ کہ اس کی انجام دہی کا راستہ
نہ سوجھے۔
الصُّيُوفُ - ہمانوں کا بہت ہونا۔
زیادہ ہونا۔

الْثَعْلُ - اونٹ یا بکری یا گائے کے حق
میں باکھ کی زیادتی۔ ج۔ ثَعُولُ -
الْثَعْلُ - مشک کے بدبودار ہونے پر
اس میں پیدا ہونے والا کیڑا۔

الْثَعْلُولُ - غضبناک۔
ثَعَالَةٌ - لومڑی (غیر منصرف)
ارض (مَثْعَلَةٌ) وہ زمین جس میں
لومڑیاں بکثرت ملیں۔
ثَعْلَبٌ و تَثَعْلَبٌ - لومڑی کے مانند
مکرو فریب کرنا۔

الْثَعْلَبُ - لومڑی۔ یہ مکرو فریب میں
ضرب المثل ہے۔ لومڑی کے متعلق
مشہور ہے کہ اس کے بال ہر سال
گر جاتے ہیں اور اس لیے دَاْعُ
الْثَعْلَبُ - اس بیماری کو کہتے ہیں جس
میں بال جھڑ جائیں۔ مادہ ثَعْلَبِيَّةُ
اور نر کو ثَعْلَبَانُ کہتے ہیں۔ اور





ثُعْلَبٌ مذکر و مونث ہر دو کے لیے
آتا ہے۔ ج۔ ثُعَالِبٌ و ثُعَال
الثُعَلِب۔ نیزے کا وہ سرا جو پھل
میں لگایا جاتا ہے
الثُعَلْبَةُ۔ دم کی بڑی۔ سُریں
عَنْبُ الثُعَلْب۔ مکو کہا جاتا ہے
مکان و مَثْعَلِب و ارض
مَثْعَلْبَةُ۔ بہت لومڑیوں والی
جگہ یا زمین
ثُعَب (ض) ثُعْبَا۔ الشَّاعَةُ۔ بکری کو
ذبح کرنا۔ ۵۔ بِالْمِخِ کسی
کو نیزہ بھونکنا۔
ثُعِب (س) ثُعْبَا۔ الجمْد۔ بروت
کا پگھلانا۔ الدَّم۔ خون کا بہنا۔
تَثْعَبْتُ لَشَّةً بِالْدم۔ مسوڑے
سے خون بہنا۔
الثُعْب۔ ج۔ ثُعَاب وَاثْعَاب
و (الثُعْبُ) ج۔ ثُعْبَان و
ثُعْبَان پہاڑ کے سایہ میں تالاب
کہ دھوپ نہ پہنچنے کی وجہ سے اس
کا پانی ٹھنڈا ہو۔
ثُعْثُع۔ ثُعْثُعَا۔ کلامہ۔ کلام
کو مخلوط کرنا۔ گفتگو کو خلط ملط کرنا
صفت (ثُعْثُع و ثُعْثُعَاغ)۔ کہا
جاتا ہے فلاں یثُعْثُعُ فی
کلامہ۔ فلاں بے ترتیب اور
گڑبڑ گفتگو کرتا ہے۔
ثُعْرَف (ث) ثُعْرَا۔ الافاء۔ برتن میں
سوراخ کرنا یا اس کو توڑنا۔
سُتَّہ۔ دانت نکالنا۔ اکھڑنا۔
الثُلْمَةُ۔ رخنہ بند کرنا۔ الجدار
گرا دینا۔
الرجل۔ کسی کے دانت توڑنا۔
کہا جاتا ہے ثُعْرُوم و ثُعْرُعلیہم
اس نے درے میں داخل ہونے کے

تمام راستے ان پر بند کر دیے۔
ثُعْر وَاثْعُر۔ منہ کھلا جانا۔
الصَّبِي۔ بچہ کا دانت ٹوٹنا۔ یا
نکلنا۔
الثُعْر۔ اگلے دانت۔ منہ۔ سرحد۔ پہاڑ یا
وادی کی کشادگی۔ ج۔ ثُعُوس۔
کہا جاتا ہے۔ اَمْسُوا ثُعُوسًا۔
وہ لوگ متفرق ہو گئے۔
الثُعْرَةُ۔ رخنہ۔ ہنسی کا درمیانی گڑھا
آسان راستہ اور اسی سے ہے۔
هُوَ يَخْتَرُقُ ثُعْرَ الْمَجْد۔
وہ بزرگی کے راستوں پر چلتا
ہے۔
الثُعُوس۔ ملک کی سرحدات پر خطرے
کی جگہ۔
الْمَثْعِر۔ راستہ۔ دشمن کے ملک
کی سرحد۔
الثُعُوب۔ زرو دانت۔
اَثْعَم۔ الوادی۔ وادی کا درخت
ثُعَامَةُ۔ پیدا کرنا۔ الراس۔
سر کا سفید ہونا۔ الرجل۔ کسی
کو غضب ناک بنانا بتلائے بدھنی
کرنا۔
ثَاعِمہ۔ بوسہ دینا۔
الثُعْم۔ کاٹنے والا کتا۔
الثُعَام۔ ایک قسم کا سفید پھولوں والا
درخت۔ واحد۔ ثُعَامَةُ۔
الثَاعِمہ۔ سفید۔
ثُعْتُ (ن) ثُعَا۔ الشَّاعَةُ۔ بکری
کا میانا۔ کہا جاتا ہے۔ مالہ
ثاغیة و لا راغیة۔ اس
کے پاس نہ بکری ہے نہ اونٹنی۔ وما
بالد اس راغ و لا راغ۔ گھر میں
کوئی بھی نہیں ہے۔
اَثْعَى۔ اَثْعَا۔ الشَّاعَةُ۔ بکری کو

میانے پر اکسایا۔ کہا جاتا ہے اَتَيْتُهُ
فَمَا اَثْعَى وَلَا رَغَى۔ میں اس
کے پاس آیا تو اس نے مجھے نہ بکری دی
نہ اونٹنی۔
الثُعْبَةُ۔ بھوک۔ اور قبیلہ کا خالی ہو
جانا۔ کہتے ہیں۔ اصاب الحی
ثُعْبَةُ۔ قبیلہ کو بھوک کی آفت
پہنچی۔
ثُعَاء (ف) ثُعَا۔ القدس۔ ہانڈی
کے جوش کو ٹھنڈا کرنا۔
الثُعَاء۔ رائی۔
ثُعَد۔ الدساع۔ زرد کو لباس
کے نیچے پہننا۔
الثُعَا فید۔ اوپر نیچے سفید بادل۔
(والمثافید)۔ کپڑوں کے استر
واحد۔ مَثْفَد۔
اَثْعُر و ثُعْر۔ الحمار۔ پیچھے سے
چلانا۔ دھچی بنانا۔ یا کنا۔
اَسْتَثْعُر۔ الکلب بذنبہ۔ کتے
کا دم دبانا۔ المصارعُ بثوبہ۔
لنگرٹ اندھنا۔
الثُعْر و الثُعْر۔ زین کے پچھلے حصہ کا
تسمہ۔ ج۔ اَثْعَار۔
ثُعْل (ن) ثُعْلَا و ثُعْل۔ الرُفَى۔ چکی
کے نیچے چڑھ رکھنا۔ الشَّيْء
کیبارگی بکھیر دینا۔
اَثْعَل۔ الخمر۔ شراب کا نہقرنا۔
الشَّرَاب۔ تھچٹ والا ہونا۔
ثَاعِلَة۔ ہم نشینی کرنا۔
تَثْعَل۔ مجدد بزرگی میں کوتاہ ہونا۔ کہتے
میں تَثْعَلُ عَرَقٌ سَوِيء۔
اس کو کم نسلی نے شرف و بزرگی سے
کوتاہ بنا دیا۔ اِسْتَعَل۔ بیٹھنا۔
الثُعَال۔ آہستہ رفتار اونٹ، یا کوئی
دوسرا جانور۔

الثِّقَالُ - چکی کے نیچے والا چمڑا۔
وَالثَّقَالُ - چکی کا چمڑا پاٹ۔
الثَّقُلُ وَالثَّقَالُ - تپکھٹ۔
الثَّقِيلُ - گوبر۔

الثَّقِيلُ - تپکھٹ کھانے والا۔
ثَقَّتْ (ض) ثَقْنًا - المناقاة
اونٹنی کا گھٹنے سے مارنا۔

ثَقَّنَهُ - دفع کرنا۔ مارنا۔ ثَقْنُ - الشَّيْءِ
لازم ہونا۔

ثَقَّنَتْ (س) ثَقْنًا - يَدُهُ - کام
کرنے سے ہاتھ سخت ہوجانا۔

أَثَقَنَ الْعَمَلُ يَدَهُ - سخت کر
دینا۔

ثَقَانَتُهُ - کسی کے ساتھ ہم نشینی کرنا۔

ہم زانو ہو کر بیٹھنا۔ کسی کے ساتھ
چھپے رہنا۔ یہاں تک کہ اس کی نیت

یا راز کا پتہ لگا لینا۔ علی کذا
بد کرنا۔

الثَّقَنَةُ - من - المعير - اونٹ کے

بدن کا وہ حصہ جو بیٹھتے وقت زمین

پر لگے اور وہ سخت ہو گیا ہو سکتے

ہیں۔ نَحْوُ البعير علی

ثَقْنَاتِهِ - یعنی اونٹ بیٹھ گیا۔

من الانسان - انسان کے زانو۔

من الخيل - گھوڑے کے زانو۔

کابطنی حصہ۔ ج۔ ثَقِنَات

الثقنة - لوگوں کی جماعت کو

بھی کہتے ہیں۔

ثَقَانٌ، ثَقْوًا - تابع ہونا، پیچھے

جانا۔

أَثَقَى - الرجل - آدمی کا تین عورتوں

سے نکاح کرنا۔

(و ثَقِي) ہانڈی کو چو لھے کے

پایہ پر رکھنا۔

المُثَقَّى - وہ شخص جو تین یا تین سے

زائد بیویوں کو دفن کر چکا ہو۔

المُثَقَّاة - وہ عورت جس کے تین یا تین

سے زائد شوہر مر چکے ہوں۔

ثَقِبَ (ن) ثَقْبًا - الشَّيْءُ - کسی چیز میں

سوراخ کرنا۔ چھیدنا۔

(ثَقُوبًا) الناس - آگ کا روشن

ہونا۔ النجم - ستارہ کا چمکنا۔

الطائر - پرندہ کا اونچا اڑنا۔

الناقة - اونٹنی کا بہت دودھ

والی ہونا۔ رائیہ - کا

نافذ ہونا۔ الرائحة

نوشبو پھیلنا۔

ثَقِبَ (ك) ثَقَابَةً - سرخی میں

آگ کے مشابہ ہونا۔ صفت۔

(ثَقِيب) مؤنث ثَقِيبَةٌ -

ثَقِبَ وَثَقَّ - الشَّيْءُ - سوراخ

کرنا۔

ثَقَبَتِ الشَّيْبَ وَثَقَبَ فِيهِ الشَّيْبُ

بڑھا پانا ظاہر ہونا۔ کسی میں آثار پیری

کا ظاہر ہونا۔

ثَقِبَ وَثَقَّ - الناس - آگ جلانا۔

الثَّقِبُ - سوراخ۔ ج۔ الثَّقِبُ وَ

ثَقُوبٌ -

الثقبة - چھوٹا سوراخ۔ ج۔ ثَقِبُ

و ثَقِبٌ -

الثقَابُ وَالثَّقُوبُ - آگ سلکانے کی

چھوٹی چھوٹی لکڑیاں۔ ان کو عوام

شعوب یا لفظ کہتے ہیں۔ چھپٹیاں۔

الثَّقَابُ - فاء - راجی ثاقب - بات کی

تہہ تک پہنچنے والی رائے۔

عقل ثاقب - عقل کامل۔

حسب ثاقب - مشہور معروف

حب کہتے ہیں۔ نَحْنُ الثَّقَبُ

الناس النساء - یعنی لوگوں میں

ہمارا نسب سب سے زائد، واضح

اور مشہور ہے۔

المُثَقَّب - برما۔ کہتے ہیں۔ رجل

مُثَقَّب - یعنی باختر تجربہ کار عہدہ

رہائے رکھنے والا آدمی۔

المُثَقَّب والمُثَقَّب - بڑا راستہ

سخت اور دشوار راستہ۔ کہتے ہیں۔

هو طَلْعُ المُنَاقِب - یعنی وہ بڑا

بہادر من چلا ہے۔

المُثَقَّب - سوراخ کیا ہوا۔

ثَقَفَتْ (س) وَثَقَفَتْ (ك) ثَقْفًا وَ

ثَقْفًا وَثَقْفًا فَتًا - ذہین ہونا۔

ہوشیار ہونا۔ دانا ہونا۔ صفت۔

ثَقَفٌ وَثَقْفٌ وَثَقْفٌ وَثَقِيفٌ

ثَقِيفُهُ (س) ثَقْفًا - فتح مند وہ

کامیاب ہونا۔ کسی کو جا پکڑنا۔

ثَقْفًا وَثَقْفًا فَتًا وَثَقُوفًا

الکلام - بات کو جلد سمجھ لینا۔

ثَقَفَهُ (ن) ثَقْفًا - مہارت میں بڑھنا

بالرمح - نیزہ مارنا۔

ثَقَفَ الرُمح - نیزہ کو سیدھا کرنا۔

الولد - لڑکے کو مذہب بنانا۔ تربیت

دینا۔ تعلیم دینا۔

ثَقَفَهُ - ہتھیاروں سے باہم کھیلنا۔

مہارت میں بڑھنا۔ مخاصمت کرنا۔

جھگڑا کرنا۔ کہتے ہیں۔

ثَقَفْتُهُ فَثَقَفْتُهُ - میں نے اس پر

غلبہ کی کوشش کی۔ پس غالب ہو گیا۔

ثَقَفْنَا ثَقْفًا - باہم جھگڑا کرنا۔ دانائی میں ایک

دوسرے پر غالب آنے کی کوشش

کرنا۔

الثَّقَات - جھگڑا۔ نیزوں کو سیدھا کرنے

کا اوزار۔

امراة (ثقافت) بہت ذہین عورت

الثَّقِيف - بہت ہوشیار۔ بہت زیرک

وچالاک۔

ث



خَلُّ ثَقِيْفٌ - بہت کھٹا سرکہ
 الْمُثَقَّفُ عَرَفَ شَعْرًا مِیْنِ نِزَہ
 ثَقُلَ (ذَکَ) ثَقْلًا وَثِقَالَةً - بھاری
 ہونا۔ بوجھل ہونا۔ صفت۔ (ثقیل
 وَثِقَالٌ وَثِقَالٌ جِ ثِقْلًا
 وَثِقَالٌ وَثِقُلٌ -
 السَّمْعُ - کچھ بھرا ہونا۔ کچھ اونچی
 سنا۔
 الْقَوْلُ - کسی بات کا سننا ناگوار ہونا۔
 الْمَوَاقِعُ - عورت کا حمل ظاہر ہونا۔
 ثَقُلَ (ذَکَ) ثَقْلًا - وزن معلوم کرنے کے
 لیے ہاتھ میں اٹھانا۔
 ثَقُلَ (ذَکَ) ثَقْلًا الْمَرِیضُ - بیماری
 کا سخت ہو جانا۔
 ثَقُلَ - بوجھل کرنا۔ بھاری کرنا۔ الحَوَافِ
 تَشْدِیدِ دِیْنًا عَلَیْہِ - کسی پر بھاری
 بوجھ دینا۔
 ثَقُلَ - ثقیل کھانا کھانا یا کھانا۔
 آثَقُلَ - بھاری بوجھ لادنا۔ ۵ الموصُ
 بیماری کا سخت ہونا۔
 اَثَقَلَتِ الْمَوَاقِعُ حَمْلَ کَا بھاری ہونا۔ اور
 ولادت کا وقت قریب آنا۔ صفت
 مُؤَنَّثٌ - (مُثْقِلٌ وَ مَثْقَلٌ)
 تَثَقَّلَ - بے کلفت ثقل ظاہر کرنا۔ عنہ۔
 دِیر لگانا۔ الْقَوْمُ - قوم سے
 مدد طلب کرنے کے باوجود اس کا
 مدد کے لیے نہ اٹھنا۔
 اِثْقَالَ - الی الدنیا۔ دنیا کی طرف
 جھکنا۔ مائل ہونا۔
 اِسْتَثْقَلَ - الشیءُ - چیز کا بوجھل ہونا
 الشیءُ - بوجھل پانا۔ بفلان -
 کسی کا بوجھ محسوس کرنا۔
 الثَّاقِلُ - بوجھل۔ مَرَضٌ شَاقِلٌ -
 سخت بیماری۔ دینا سُرُّ ثَاقِلٌ -
 پورا دینا۔ جِ ثَوَاقِلُ - کتے ہیں

اصْبَحَ ثَاقِلًا - اس کو بیماری نے
 بوجھل کر دیا۔
 الثَّقَلُ - مسافر کا سامان اور اس کے
 نوکر چاکر۔ کتے ہیں للمسا فر
 ثَقُلَ کَشِیرٌ - ہر چیز نفیس قیمتی
 ہے۔ ج۔ اَثْقَالٌ -
 الثَّقَلَانُ - انسان اور جن۔
 الثَّقُلُ - بوجھ۔ وزن، کتے ہیں
 اعطیہ ثَقْلَہ - اس کو اس کے
 برابر دو۔ ج۔ اَثْقَالٌ -
 الْأَثْقَالُ - زمین کے خزانے اور دھینے۔
 مُرَدٌّ - قرآن مجید میں ہے
 وَاخْرَجْتَ الْأَرْضَ أَثْقَالًا -
 اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دیگی۔
 الثَّقِلُ - گرا بھاری۔
 الثَّقَلَةُ وَ الثَّقَلَةُ وَ الثَّقَلَةُ
 وَ الثَّقَلَةُ وَ الثَّقَلَةُ - کل
 ساز و سامان، کتے ہیں اِرْتَحَلُوا
 یَثْقِلُ تَحْمِلُہِ یعنی وہ مع اپنے کل
 ساز و سامان کے چل دیے۔
 الثَّقَلَةُ - پیٹ میں خوراک کی گرانی۔
 اَوْنِکَہ - کتے ہیں وَجَدْتُ ثَقْلَہ
 فِی جِسْدِی - میں نے اپنے بدن
 میں گرانی و سستی محسوس کی۔
 الْمِثْقَالُ - تولنے کے اوزان۔
 مِثْقَالُ الشَّیْءِ - چیز کا وزن یا چیز
 کی ترازو۔ ج۔ مِثْقَالٌ - عرف
 میں مِثْقَالُ ڈیڑھ درہم کے وزن کا
 ہوتا ہے اور کبھی اس سے کم اور زیادہ
 بھی ہوتا ہے۔
 ثَقُلَ (ذَکَ) ثَقْلًا وَ ثَقَالَةً - بچہ کو
 گم کرنا۔ کھونا۔ صفت (ثاکل و
 ثکلان) مُؤَنَّثٌ ثَاقِلٌ وَ ثَاقِلَةٌ وَ
 ثَاقِلٌ - ج۔ ثَوَاقِلُ وَ ثَاقِلٌ -
 اَثْقَالُ - اُمُّہُ وَ کَدَّہَا - واثقل

الْوَلَدُ اُمُّہ - بچہ سے ماں کو
 کرا دینا۔ اور ماں کے سامنے بچہ کا
 مرجانا۔
 الثَّكُولُ وَ الْمُنْكَالُ - بچہ کو بہت گم
 کرنے والی عورت۔ ج۔ مِثْقَالٌ
 کتے ہیں نساء الخِزَانَةُ مِثْقَالٌ
 غازیوں کی عورتیں بچہ کو گم کرنے والی
 ہوتی ہیں۔
 الْمُثْقَلَةُ - بچہ کے گم ہونے کا سبب۔
 کہا جاتا ہے "رَمَحَهُ لِلْوَالِدَاتِ
 مِثْقَلُہ" - اس کا نیزہ ماؤں کے
 لیے بچوں کے گم کرنے کا سبب ہے۔
 ثَكَمَ (ذَکَ) ثَقْلًا - الامر و الطریق -
 کسی معاملہ یا راستے کے لیے لازم
 ہونا۔
 الْأَثَامُ - آثار کا کھوج لگانا لہ الامر -
 کسی معاملہ کو واضح طریقہ سے بیان
 کرنا۔
 وَ ثَكَمَ (ذَکَ) ثَقْلًا بِالْمَكَانِ -
 کسی جگہ اقامت کرنا۔
 ثَكَمَ الطَّرِيقَ وَ ثَكَمَتَہ - راستہ کا
 درمیان۔
 ثَكَمَتَہ - کبوتروں کا غول۔ فوجوں کا مرکز
 لوگوں کی جماعت۔ چوپایوں کا گلہ یا
 ریوڑ۔ گردن کا بند۔ جھنڈا۔ ج۔
 ثَكَمَ کہا جاتا ہے۔ حَامٌ ثَكَمَ
 اگلے کبوتر۔
 ثَل (ذَکَ) ثَقْلًا - البسْرُ - کوئیں کی مٹی نکالنا۔
 الوعاء - برتن سے سب کچھ نکال لینا
 (ثَلَّ وَ ثَقْلًا) الْقَوْمُ قوم کو ہلاک
 کرنا۔
 الْبَيْتُ - گھر کو گرا دینا۔ کتے ہیں۔
 ثَلَّ اللَّهُ عَرْشُہُہ - اللہ نے ان
 کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔
 وَ ثَلَّ عَرْشُہُہ - ان کی عزت

جاتی رہی۔

الْتَرَابُ۔ مٹی گرانایا ڈالنا۔

كَلَّ ذِي حَافِرٍ۔ لید کرنا۔

اَثَلَهُ اِثْلًا ثَقًا۔ ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کے لیے حکم دینا۔

الرجلُ۔ کسی کا بہت بھیڑوں والا ہونا۔

فَمَهُ۔ کسی کے دانت گر جانا۔

تَشَلَّلَ۔ البیتُ۔ گھر کا دھیرے دھیرے منہدم ہونا۔

اِنْشَلَّ۔ گر جانا۔ زمین پر آ رہنا۔

الْمَثَلُ۔ ہلاکت۔ دانٹوں کا گرنا۔

الْمَثَلَةُ۔ ہلاکت۔ جر۔ ثَلَلَ۔

الْمَثَلَةُ۔ بھیڑوں کا ریوڑ اُون کتے ہیں

کیسے جید المَثَلَةُ۔ بڑھیا اُون

کا مبل۔ کوئی سے نکالی ہوئی مٹی۔

جر۔ ثَلَلَ وِثْلًا۔ اُون اور بالوں

کا مجموعہ۔

الْمَثَلَةُ۔ انسانوں کی جماعت۔ کتے ہیں

فَلَانٌ لَا يَفُوقُ بَيْنَ الْمَثَلَةِ وِ

الْمَثَلَةِ۔ یعنی فلاں بھیڑوں اور

انسانوں کی جماعت میں تمیز نہیں

کرتا۔

الْمَثَلَةُ۔ محرار میں سا بران

ثَلَبَهُ (ض) ثَلَبًا۔ عیب لگانا۔ ملامت

کرنا۔ غیبت کرنا۔ گالی دینا۔ دھتکارنا

الْمَثَلَةُ۔ رخنہ ڈالنا۔

ثَلَبَ (س) ثَلَبًا۔ الشیءُ کسی شئی

کا رخنہ والی ہونا۔

الجلدُ۔ کھال کا سُکڑنا۔

ثَلَبَ۔ بہت بوڑھا ہونا اور دانتوں کا

گر جانا۔

الْمَثَلَةُ۔ بڑھاپے کی وجہ سے دانت

گرا ہوا اونٹ۔ جر۔ ثَلَبَهُ وِ

اَثْلَابُ

وَالْمَثَلَةُ۔ عیبی۔ ذلیل۔ دُھم ثَلَبَ۔

ٹوٹا ہوا نیزہ۔

الْاَثْلَابُ وَالْاَثْلَابُ۔ مٹی یا پتھر کا چورا۔

جر۔ اَثْلَابُ

الْمَثَلَةُ۔ عیب لگانے کا عادی۔

الْمَثَلَةُ۔ عیب۔ گالی کتے ہیں مَآ عَرَفْتُ

فِيهِ مَثَلَةً۔ میں اس میں کوئی

عیب نہیں سمجھتا۔

جر۔ مَثَلَبُ۔

مَثَلَبُ الْاَمْرِ۔ کسی امر کی خامیاں۔

ثَلَثَ (ن) ثَلَاثًا۔ الشیءُ کسی شئی کا ایک

تھائی لینا۔

الْقَوْمُ۔ قوم کا ثَلَثَ مال لے لینا۔

ان میں تیسرا ہونا۔

ثَلَثَ۔ الْاَثْنَيْنِ۔ دو میں شامل ہو کر

ان کو تین کر دینا۔

الْمَثَلَةُ۔ مَثَلَتُ بَنَانًا۔ المَثَلَةُ۔

کسی رقیق شے کو اس قدر پکانا کہ تیسرا

حصہ رہ جائے۔

الْمَثَلَةُ۔ تین مرتبہ کرنا۔

اَثْلَثَ۔ الْقَوْمُ۔ تین ہونا۔ تیس ہونا۔ مثلاً

كَانُوا ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ فَانْثَلَا

یعنی وہ اسیس تھے تیس ہو گئے۔

الْمَثَلَةُ۔ تین۔ مَرْنُ ثَلَاثَ۔ نو اَثَلَات

تین لڑیوں والی رسی کتے ہیں فعلہ

ثَلَاثًا۔ اس نے اس کو تین مرتبہ کیا

الْمَثَلَةُ۔ اونٹنی کا تیسرا بچہ۔ کتے ہیں سقی

زُرْعَةُ الْمَثَلَةِ۔ اس نے اپنی

کھیتی کو تین دن میں ایک مرتبہ پانی

پلایا۔

الْمَثَلَةُ وَالْمَثَلَةُ۔ ایک تہائی۔

جر۔ اَثْلَاتُ۔ اور اسی معنی میں

(الْمَثَلَةُ) ہے۔

الْمَثَلَةُ وَالْمَثَلَةُ وِیَوْمَ الْمَثَلَةِ۔

منگل۔ اس کا تینہ ثَلَاثًا وِ

اور جمع ثَلَاثًا وِثَلَاثًا وِثَلَاثًا وِ

وِثَلَاثًا۔ ہے۔

الْمَثَلَةُ۔ مَوَٹے حروف والا خط

(اَوَ ثَلَاثًا وِثَلَاثًا) وہ تین تین

آئے۔ یہ غیر منصرف ہے اور اس میں

مذکر و مؤنث برابر ہیں۔

الْمَثَلَةُ وَالْمَثَلَةُ۔ مَوَٹے حروف والا

الْمَثَلَةُ۔ تیس (مذکر و مؤنث)

الْمَثَلَةُ۔ جو تین سے مرکب ہو۔ یعنی

تثلیث۔

الْمَثَلَةُ۔ تین لٹوں کا تانم۔ سارنگی کی

تیسری تار۔

جر۔ مَثَلَتُ۔

الْمَثَلَةُ وَالْمَثَلَةُ۔ بادشاہ کے پاس

چغل خوری کرنے والا۔

الْمَثَلَةُ۔ تین نقطوں یا حرکت والا حرف

تین ضلعوں والی شکل۔

الْمَثَلَةُ۔ تین سے مرکب، جس کا تیسرا حصہ

لیا گیا ہو۔

مِنَ الْجِبَالِ۔ تین لڑیوں سے بڑی

ہوئی رسی۔

”كَسَاءُ مَثَلُوتٍ“۔ اُون پشم اور

بالوں کا بنا ہوا مکمل۔

الْمَثَلَةُ۔ تین چڑیوں کا بنا ہوا گوشہ دان۔

ثَلَجَتْ (ن) ثَلَجًا وِثَلَجَتْ۔ السماءُ

آسمان کا برف برسانا۔ کتے ہیں۔

ثَلَجَتْ السَّمَاءُ۔ یعنی آسمان نے

ہم پر برف برسائی۔

ثَلَجَتْ (ن) ثَلُوجًا۔ نفسی بہ

والبہ۔ جی کا کسی سے خوش ہونا۔

مَطْنٌ ہونا۔

ثَلَجَ۔ فَوَادِہ۔ بلید الطبع ہونا۔

صفت۔ (مشلوج) الفواد۔

ثَلَجَتْ الارضُ۔ وِثَلَجَتْ۔ زمین

پر برف پڑنا۔





اَثْلَجَ - خوش کرنا۔ اَثْلَجَ القومُ - لوگ برف میں پہنچے۔
اَثْلَجَتْ عَنْهُ الْحُمَى - اس کا بخار جاتا رہا۔
اَثْلَجَ مَاءُ الْبُئْرِ - کوئیں کا پانی ختم ہو گیا۔
الشَّيْخُ - برف۔ جہ تلوچ واحد تَلَجَ مَاءٌ شَلَجٌ - ٹھنڈا پانی۔
الشَّلَجُ - عقاب کا پوزہ۔
الشَّلَاجُ - برف کا سوداگر۔ الشَّلَاجِيّ - بہت مفید۔ کہتے ہیں۔ نَصْلٌ شَلَاجِيٌّ - پھل بہت سفید ہے۔
الْمَغْلُجَةُ - برف کی حفاظت کی جگہ۔
الْمَثْلُوجُ - برف پڑی ہوئی چیز۔
رَجُلٌ مَثْلُوجٌ الْفَوَادِ - بلید الطبع آدمی مُردہ دل سرد مہر ہوا پانی۔
ثَلَخَ (ف) ثَلَخْنَا - الْبَقَرُ - گوبر کرنا۔
ثَلَخَ (س) ثَلَخْنَا - گوبر میں آلودہ ہونا۔
ثَلَدَ (ض) ثَلَدْنَا - الْفِيلُ - پتلا پاشمانہ کرنا۔
ثَلَطَ (ض) ثَلَطْنَا - الشَّوْسُ وَالْبَعِيدُ - پتلا پاشمانہ کرنا۔
ثَلَعَ (ف) ثَلَعْنَا - سَرَّاسُ - سرکپنا توڑنا۔
الْمَغْلَخُ - پھٹ کر زمین پر گری ہوئی گھوڑیں کہتے ہیں تناثرات الشمس نَشِيعَتُ - پھل بھر گئے اور پھٹ گئے۔
ثَلَمَ (ض) ثَلَمْنَا وَثَلَمَ - الْحَائِطُ دیوار میں رخنہ ڈالنا۔
الْإِنَاءُ - برتن کو کنارہ سے توڑنا۔

ثَلِمَ (س) ثَلِمْنَا وَثَلِمَ وَانْثَلَمَ - رخنہ ڈالنا۔
ثَلِمَ - ثَلِمَةً - فِي مَالِهِ - کسی کے مال سے کچھ جاتا رہا۔
الثُّلُمُ - ج۔ اَثْلَامُ وَالثُّلُمَةُ - فِي الْحَائِطِ وَنَحْوِهِ - شکاف رخنہ۔ ٹوٹی ہوئی جگہ۔
الْأَثْلَمُ - ظاہر رخنہ دار شے۔
ثَمَ (ن) ثَمْنَا - الشَّيْءُ - اصلاح کرنا۔ درست کرنا۔ کہتے ہیں ثَمَمْتُ اُمُوسَى - میں نے اپنے امور کی اصلاح کر لی۔ ثَمَمْتُ الشَّاةُ - انبت بقیہا۔ بکری نے گھاس کو اپنے منہ سے اکھیرا۔
لِثَلَمَ - الْجِسْمُ - جسم کا کھلنا۔ کمزور ہونا۔
الشَّيْخُ - بڑھا اور بن رسیدہ ہونا۔ صفت علیہ - کسی پر ٹوٹ پڑنا۔
ثَمَّ وَثَمَّةٌ - وہاں (دور کا اشارہ) الثَّمُ مَصْ - ثَمَّ - بمعنی درست کرنا۔ اور اسی سے ہے یہ کلام کُتِبَ اَهْلُ ثَمِيمٍ وَسَمِيهِ - ہم اصلاح و مرمت کے اہل تھے۔ اور کہتے ہیں هُوَ ثَمُّهُ وَرَمُّهُ او ثَمُّهُ وَرَمُّهُ وہ اس کا جید و ردی قلیل و کثیر ہے۔ اور کہتے ہیں مَا لَهُ ثَمٌّ وَلَا سُرَّةٌ - یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔
ثَمَّ - حرف عطف ہے۔ ترتیب و ترائی کے لیے آتا ہے۔ اس پر تاہی داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ثَمَمْتُ - پھر تب۔ بعد ازاں۔
الْثُمَّةُ - سوکھی گھاس کا مٹھا۔

الثَّمَامُ - ایک قسم کی گھاس جو لمبی نہیں ہوتی واحد ثَمَامَةٌ -
الْمِثْلُ - من الناس - اچھا بُرا ہر قسم کا کھانا کھانے والا۔
ثَمَاءُ (ف) ثَمَاءٌ - چربی کھلانا۔
الْوَسْ - سرکپنا۔
الْإِنْفُ - ناک کی نوک توڑنے سے خون بہہ پڑنا۔
إِنْثَمَاءٌ - سر یا ناک کا ٹوٹنا۔
ثَمَجَهَ (ض) ثَمَجْنَا - طَانَا - الْمُثْمَجُ - مختلف رنگوں سے کپڑے رنگنے والا۔ مَوْنَتُ - مِثْمَجَةٌ -
ثَمَدَ (ن) ض) ثَمَدًا وَآثَمَدَ وَاسْتَمَدَ - الْمَاءُ - پانی جمع کرنے کے لیے حوض کے مانند گڑھا بنانا۔
ثَمَدَ الشَّيْءُ فَلَانًا - کسی شے کا کسی شخص کے سب مال صرف کرانے کا سبب بن جانا۔ الناقَةُ بِالْحَلَبِ دوہنے میں اونٹنی کا دودھ کو سٹک جانا۔
اِثْمَدَ وَاثْمَدَ وَاسْتَمَدَ - تھوڑے پانی کی طرف جانا۔ پانی کے گڑھے کی طرف رُخ کرنا۔
اِسْتَمَدَا - بَخَشْشَ مَالًا -
الْثَمَدُ وَالثَّمَدُ - جاڑے کے موسم کا جمع شدہ تھوڑا پانی جو گرمیوں میں خشک ہو جائے۔ بارش کے پانی کا گڑھا۔
ج۔ ثَمَادُ -
الْإِثْمِدُ وَالثَّمَدُ - سرمہ کا پتھر اس کو کیسا کے جاننے والے انیتموان کہتے ہیں۔
رَجُلٌ (مَثْمُودٌ) - وہ آدمی جس کو مانگنے والوں کی زیادتی کنگال کر دے۔

ثمر - (ن) ثمرًا و ثمر. الشجر. درخت کا پھل دار ہونا۔ صفت۔ (ثامر و مثمر) ثمر الشجر۔ الثمر، درخت کا پھل لانا۔ ثمر القوم۔ قوم کو پھل کھلانا۔ ثمر۔ مالہ۔ مال بڑھانا۔ دولت زیادہ کرنا۔ استثمر۔ الشيء۔ پھل دار بنانا۔ الرجل۔ پھل پانا۔ الثمر۔ پھل واحد۔ ثمرۃ۔ ج۔ ثمراس۔ جج۔ اثمر و ثمر۔ الثمرۃ۔ نسل۔ اولاد۔ ثمرۃ اللسان۔ زبان کی نوک۔ السوط۔ چابک کے سرے کی گرہ۔ اور اسی سے ہے یہ کلام ”أَمَرَ الْجَلَادُ أَنْ يَدُقَّ ثَمْرَةَ سَوْطِهِ“ یعنی اس نے جلاد کو حکم دیا، کہ وہ اپنے کوڑے کے سرے کی گرہ کو کچل لے۔ ثمرۃ القلب۔ دوستی الفت اور اسی سے ہے یہ قول۔ ”خَصَّنِي بِثَمْرَةِ قَلْبِهِ۔ اس نے مجھ کو اپنی دوستی کے لیے مخصوص کیا۔ الثامر لوبيا۔ شجرة (ثمراء) پھل دار درخت ارض ثمراء بہت پھلوں والی زمین۔ ثمل (س) ثملًا۔ شراب سے مست و مخمور ہونا۔ صفت (ثمل) ثملہ (ن ص) ثملًا۔ کسی کی فریاد کو پہنچنا۔ کھلانا پلانا۔ ائملہ۔ مست و مدہوش کرنا۔ ائمل اللبن۔ دودھ کا بہت جھاگ والا ہونا۔ و (ثمل اللبن) دودھ کو ہلانا کہ اس میں جھاگ اٹھ آئیں۔

تثمل۔ ما فی الاناء۔ برتن کی چیز کو پینا۔ الثملۃ۔ ج۔ ثمول۔ و (الثملۃ) ج ثمل و (الثملۃ) ج۔ ثویل برتن یا حوض میں بچا ہوا پانی وغیرہ الثمالۃ۔ جھاگ۔ الثمال و الثمل۔ زہر قاتل۔ ثمال۔ القوم۔ قوم کا فریاد رس۔ الثمیل۔ کھٹا دودھ۔ المثلۃ۔ بڑا حوض۔ المثلۃ۔ حوض کا کچڑا۔ جروا ہے کاھیلا جو وہ اپنے کندھے پر ڈالے رکھتا ہے۔ ثمن (ن ص) ثمنًا۔ الرجل۔ کسی کے مال کا آٹھواں حصہ لینا۔ الشيء۔ کسی شے کا آٹھواں حصہ لینا۔ القوم۔ قوم کا آٹھواں ہونا۔ ثمن (ن) ثمنۃ۔ الشيء۔ کسی چیز کا قیمتی ہونا۔ ثمن۔ الشيء۔ کسی شے کی قیمت کا اندازہ کرنا۔ آٹھ ضلعوں والی بنانا۔ آئمن۔ القوم۔ آٹھ ہونا۔ آئنت المال سیدھا و لزید۔ قیمت دے دینا۔ الثمن۔ بیچی ہوئی چیز کا عوض۔ ج۔ آئمان و آئمنہ و آئمن الثمن و الثمن آٹھواں حصہ۔ ج۔ آئمان۔ اور اسی معنی میں ثمین۔ ہے۔ آتوار (ثمان و مئمن) یعنی وہ آٹھ آٹھ کی تعداد میں آئے۔ الثمانیۃ۔ اس کا مؤنث ثمان ہے ثمانیۃ عشر رجلاً۔ و ثمانی عشرة امراً۔

الشامن۔ آٹھواں۔ الثمانون۔ الثمن۔ قیمت لگائی ہوئی چیز۔ بہت پسو۔ الثنۃ۔ گھوڑے کے پاؤں کے پیچھے کے بال۔ ج۔ ثنن۔ الثنۃ۔ والثندۃ۔ مرد کے پستان۔ ج۔ ثناد۔ الثنطوب۔ پنجرا بنانے والوں کی پھری۔ ثنی۔ (ن) ثنیًا۔ الشيء۔ مڑنا۔ لپیٹنا۔ تہ کرنا۔ روکنا۔ زیدًا۔ حاجت سے روک دینا۔ باز رکھنا۔ دوسرا ہونا۔ کہتے ہیں ”هذا واحد فائنه“۔ یہ ایک ہے تم دوسرے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں ”ثنیٰ علیہ بضربہ ثانیۃ“۔ اس نے اس کو دوبارہ مارا۔ و (غلان لا یثنی ولا یثثلت) یعنی فلاں چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ثنی صد سہ۔ اس نے اپنے دل میں دشمنی پھیلے رکھی۔ ثنی الشيء تثنیۃ۔ کسی شے کو دہرا کرنا۔ بالامر۔ ایک کام کے ساتھ دوسرا کام متصل ہی کرنا۔ الکلمۃ بکلمہ میں تثنیہ کی علامت لگانا۔ الحرف۔ ایک حرف پر دو نقطے لگانا۔ آثنی۔ الرجل۔ دوسرا ہونا۔ علیہ کسی کی تعریف کرنا۔ علیہ بالضرب۔ دوبارہ مارنا۔ ثثنی۔ الشيء۔ مڑنا۔ فی صدری کذا۔ ترو دو کرنا۔



فی مثبہ۔ چلنے میں جسم کو ایک جانب جھکانا۔

انثئی۔ واثنی۔ مڑنا۔ دوہرا ہونا۔

عنه الشانی۔ پھر جانا۔ علیہ

بالصوب۔ دوبارہ مارنا۔

تشانوا۔ علیہ۔ مہربانیاں ظاہر کرنا۔

استثنی۔ الشئیء۔ مستثنیٰ کرنا۔

فلائنا وعلیٰ فکائن۔ کسی کو غیر کے حکم سے خارج کرنا۔

اثنوتی۔ صدرہ علی البغضاء۔

کسی کے سینہ میں بغض و عداوت پھری رہتا۔

اثنیٰ من الثبوت۔ پیچ۔ لپٹ۔

کہتے ہیں۔ ارسکثہ ثنی کتابی

میں نے اس کو اپنے خط میں لپیٹ

کر بھیجا۔ من الوادی۔ موڑ۔

من اللیل۔ وقت۔ من الحیة

کنڈلی۔

ج۔ اثناء۔ اثناء الکلام۔

دوران کلام کہتے ہیں۔ نجاء و

فی اثناء الامر۔ وہ کام کے

درمیان میں آئے۔

الثنئی۔ اعادہ کی ہوئی بات۔

ج۔ ثنیہ

الثناء۔ اونٹ کے باندھنے کی

دوہری رسی۔

اتوا۔ (ثنا و مثنیٰ) وہ لوگ دو

دو آئے غیر منصرف ہے اور مذکر و

مؤنث کے لیے یکساں ہے۔

الثنئی۔ ج ثناء و ثنیان۔ وہ جانور

جس کے سامنے کے دانت گر گئے

ہوں۔

الثنیۃ۔ سامنے کے اوپر نیچے کے دو دو

دانت۔ استثناء۔ کہتے ہیں۔

حلف یمینا لیس فیہا

تثنیۃ۔ یعنی اس نے بغیر

استثناء کے قسم کھائی۔ گھائی کا

راستہ کہتے ہیں۔ فلاں طلاع

الثنایا۔ فلاں شخص مشقتوں کو

بہت برداشت کرنے والا ہے۔

تثنیۃ الاشتراع۔ حضرت موسیٰ علیہ

السلام کی پانچویں کتاب۔

الثنایج۔ من الالفاظ۔ دوحرفوں

والالفاظ۔

اثنان۔ مؤنث۔ ثنتان و اثنان

دو۔

الاثنان و یوم الاثنین۔ پیر کا دن۔

الثنائی۔ مؤنث۔ ثانیۃ۔ دوسرا۔

الثنائیۃ۔ سیکنڈ۔ ج۔ الثوائی۔

الثنوی و الثنیۃ۔ من الجزوس

مذبح کا سراپاؤں۔ مستثنیٰ کی ہوئی

چیز۔

المثنیٰ۔ بربط با جہر کا دوسرا تار۔ وادی

کا موڑ۔ ج۔ المثنائی۔ المثنائی قرآن

کی آیتیں۔

مثنائی الشئی۔ رسی وغیرہ کی لڑیاں۔

والمثنائی من الذابۃ۔ جانور

کے گھٹنے اور کنیاں۔

المثناة۔ اون اور بال وغیرہ کی رسی۔

کچی۔ لپیٹ۔

ج۔ مثنیۃ۔

ثاب۔ (ن) ثوباً و ثوباً۔ لٹنا۔

الناس۔ لوگوں کا اکٹھا ہونا۔

الماء۔ پانی کا حوض میں جمع ہونا۔

(ثوباً و ثوباً) ثوباً (ثوباً و ثوباً)

المریض۔ بیمار کا صحت یاب

ہونا۔

ثوبہ۔ من کذا۔ بدلہ دینا۔

ثوب الداعی۔ کپڑے کو ہلا کر

اشارہ کرنا۔ الرجل۔ کسی کا جانے

کے بعد واپس ہونا۔

و ثنوب المصلى۔ فرض کے بعد

نفل نماز ادا کرنا۔

آثاب۔ اِثَابَة۔ الرجل۔ صحت یاب ہونا

الرجل۔ بدلہ دینا۔ ۵ جزاء ۵۔

جزا دینا۔ الحوض۔ حوض بھرنا۔

ثنوب۔ ثواب حاصل کرنا۔

استثاب۔ المال۔ مال کو واپس مانگنا۔

الرجل۔ کسی سے بدلہ مانگنا۔

الثائب۔ فا۔ بارش سے پہلے کی تند

ہوا۔ من البحر۔ بھٹا کے بعد

سندر کا بڑھتا ہوا پانی۔

الثوب۔ لباس۔ کپڑا۔ ج۔ ثیاب و

آثواب و آثوب۔ کہتے ہیں

طاہر الثیاب۔ پاک نفس آدمی۔

اچھے چال چلن کا آدمی۔ دینس

الثیاب۔ بد باطن۔ بد اخلاق۔

الثواب و المثنویۃ و المثنویۃ۔ اچھے

اور برے اعمال کا خصوصاً اچھے اعمال

کا۔ شد۔ شد کی مکھی۔

الثواب۔ بزاز۔ کپڑے کا سوداگر کپڑے والا

الثیابی۔ کپڑوں کی حفاظت کا ذمہ دار۔

المثاب و المثابۃ۔ لوگوں کے جمع ہونے

کی جگہ۔ کوئیں کے ارد گرد کے اونچے

پتھر۔

الشوج۔ مٹی چونا اٹھانے کی ٹوکری۔

ثاخذ دن من، ثوباً و ثیاباً۔

الاصبع فی الیوم و الرجل

فی الرجل۔ انگلی کا درم میں یا

پاؤں کا کچھڑ میں دھنسا جانا۔

ثاس دن، ثوساً و ثوراً و ثوداً

جوش میں آنا۔ اور اسی سے ہے یہ

کلام "ثارت الفتنة بینہم"

فتنہ و فساد ان میں بھڑک پڑا۔

الغباس و الدخان۔ غبار یا

دھوئیں کا بلند ہو کر ہوا میں پھیل جانا۔
 الجراد۔ ٹڈیوں کا نمودار ہونا۔
 نفسه جی متلانا۔ البیہ و بہ
 کسی پر حملہ کرنا۔ کود پڑنا۔
 ناکورہ۔ مٹاؤرہ و ٹوآسرا۔ حملہ کرنا۔
 ثورہ و آثارہ و استکارہ۔ اڑانا۔
 جوش دانا۔
 ٹوس الامر۔ کسی معاملہ میں کھوکھید
 کرنا۔
 ٹوس الکتاب۔ معافی کتاب میں بحث
 کرنا۔
 تشر۔ اڑنا۔ جوش میں آنا۔
 ثوران۔ شفق۔ و ٹوسرہ۔ شفق کی
 سرخی۔ اور اس کی سرخی کا انتشار۔
 و ثیرہ و ٹوسرہ۔ الثورناخن
 کے بڑکی سفیدی کو بھی کہتے ہیں۔
 الثورہ۔ گائے۔ کثرت۔ کہتے ہیں۔
 ٹوسرہ رجال۔ اوسر مال۔
 لوگوں یا ریت کی کثرت۔ جوش و
 ہیجان۔ بغاوت۔
 الثائر۔ فاعل۔ کہتے ہیں۔ ثائر ثائرہ و
 فاسر فائیکہ۔ یعنی وہ غضب ناک
 ہو گیا۔ آپے سے باہر ہو گیا۔
 و سر آیتہ ثائر الراہ۔
 میں نے اس کو بڑھاپے کے سبب
 سفید سر یا بکھرے ہوئے بالوں
 والا دیکھا۔
 الشائرہ۔ شور۔ چیخ۔ جہ۔ ثوآئر۔
 المشورہ۔ بہت بیلوں والی زمین۔
 قاع (ن) ثوعا۔ الماء۔ بنا۔
 ثوآل (س) ثوآ و ثآلت۔ (ن)
 ثوآ۔ الشاة خاصہ۔
 بکری کا دیوانی ہونا۔ الرجل۔ آدمی کا
 بیوقوف ہونا۔ صفت د آثول،
 مؤنث ثوآء۔ جہ۔ ثول۔

ججہ۔ اٹاؤلہ۔
 تشول۔ التحل۔ رشد کی کھیل کا جمع
 ہونا۔ علیہ القوم۔ لوگوں کا
 کسی کو برا بھلا کہنا۔ اور زد و کوب
 کرنا۔
 انثال۔ انٹیال۔ علیہ الثواب۔ کسی
 پر مٹی کا کرنا۔ کہتے ہیں انثال
 علیہ الناس من کحل و جھل۔
 لوگ اس پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑے
 علیہ القول۔ زبان سے بے ساختہ
 بات نکل جانا۔
 الثول۔ شہد کی مکھوں کا جھنڈ۔
 الثویلہ۔ قبیلہ کے اجتماع کی جگہ۔ متفرق
 گھروں کے لوگوں کا اجتماع۔ کہتے ہیں
 آئی ثویلہ من الناس۔ لوگوں
 کی ایک جماعت آئی۔
 الثوم۔ لہسن۔ الثومۃ۔ ایک لہسن
 تلوار کے دستہ کے کنارے کی
 آرایش۔ کہتے ہیں۔ سیفی ثومتہ
 من فضہ۔ میری تلوار کے دستہ
 کا کنارہ چاندی کا ہے۔
 تناون۔ مکرو فریب کرنا۔ دھوکا دینا۔
 الثوینی۔ پٹروں میں لگانے کی خشکی۔ پلیتھن
 ثوی۔ (ض) ثوآء و ثویا۔ امکان و
 فیہ و بہ۔ کسی جگہ ٹھہرنا۔ آباد ہونا
 الرجل۔ آدمی کا مرنا۔
 ثوی۔ دفن کیا جانا۔
 ثوآہ۔ تشویہ۔ فی امکان۔ کسی کو
 کسی جگہ ٹھہرانا۔ قیام کرنا۔
 آثوی۔ ٹھہرنا اٹواہ۔ کسی کی ممانی کرنا۔
 اٹواہ فی امکان۔ کسی کو کسی جگہ ٹھہرانا
 قیام کرنا۔
 تشوآہ۔ ممان بنا۔
 الثوۃ۔ گھر کا سامان۔ راستہ کے نشان کے
 پتھر۔ جہ۔ ثوی۔

المشاوۃ والثایۃ۔ اونٹوں کا بارہ۔
 الثوی۔ ممان۔ ممان خانہ۔ قیدی۔ جہ۔
 آثویا۔ مؤنث۔ ثویۃ۔
 الثویۃ۔ بیڑ بکری۔ گائے اونٹ کا بارہ
 عورت۔ کہتے ہیں۔ ہذا ثویۃ
 فلاں۔ یہ فلاں کی بیوی ہے۔
 الثویۃ۔ راستہ میں نصب کیا ہوا پتھر جو
 رات کے وقت چرواہے کے لیے
 رہنمائی کا کام دے۔ جب وہ اپنی بکریوں
 کے پاس جاتے۔
 المٹوی۔ منزل۔ جہ۔ مشاویہ۔ المومثوی۔
 ممان ابو مشواۃ۔ میزان ام۔
 مشواۃ۔ میزان کی بیوی۔
 تثبت و تثبت۔ المرأة زوجہا۔
 عورت کا موت یا طلاق کے سبب
 اپنے خاوند سے جدا ہو جانا۔ بیوہ ہو
 جانا۔ صفت (ثیب) و (الثیب)
 وہ عورت جو کنواری نہ ہو۔ شادی شدہ
 مرد یا عورت۔ مذکر و مؤنث دونوں کے
 لیے یکساں ہے۔ کہتے ہیں۔ رجل
 ثیب۔ شادی شدہ مرد۔ امرأۃ
 ثیب۔ شوہر سے جدا شدہ عورت۔
 ثیب۔ جو مؤنث کے لیے ہے اس
 کی جمع ثیبات۔ ہے۔ کہا جاتا ہے
 بئر ثیب۔ وہ کنواں جس میں پانی
 جمع ہو۔
 المٹیب۔ خاوند سے جدا شدہ عورت۔
 الثبیل۔ جھکی بکری۔
 ثبیل و تثبیل۔ الرجل۔ دیدہ و دانستہ
 بیوقوف بنا۔
 الثیل و الثیل۔ ایک گرہ دار بوٹی جو زمین
 پر پھیلی ہے۔
 الیثین۔ موتی نکالنے کی جگہ۔ موتی میں
 سوراخ کرنے والا۔ یا سوراخ کرنے
 کا اوزار۔



جَاب (ف) جَا بَا۔ مال کانا۔ گيرو مٹی پینا۔

الجَاب۔ گيرو مٹی۔ اکھڑا جڈ آدمی۔ شیر ج چوؤب۔ کہتے ہیں۔ فلان جَاب الصَّبْر۔ فلان شخص کاموں میں پکا صابر ہے۔

جَابَةُ البَطْن۔ ناف۔

جَا بَز جَا بَزَة۔ بھاگنا۔

جَيْث (س) جَا سَا۔ الرجل۔ اٹھنے یا بوجھ اٹھانے میں سست ہونا۔

جَيْث۔ جَا سَا وَجُو سَا۔ خوف زدہ ہونا۔ صفت۔ (مَجُووُث)

أَجَا ثَل۔ الحَصْل۔ بوجھ کا بھاری لگنا۔

الْحَا آث۔ بدخلق۔ سست رفتار۔

جَا جَا۔ جَا جَا كَ۔ بالابل۔ اونٹ کو

جئی جئی۔ کی آواز سے پانی پینے کو بلانا۔

تَجَا جَا۔ عن كذا۔ رکنہ باز رہنا۔

أَلْجُو جُو۔ من الطائر۔ والسفينة

پرنڈ کا سید۔ جہاز کا اگلا حصہ۔

ج۔ جَا جِي۔

جَا ذ (ن) جَا ذَا۔ منہ لگا کر پینا۔

الْحَا يَذ۔ منہ لگا کر پینے والا۔

جَا س (ن) جَا رَا وَجُو رَا۔ الى الله۔

بلند آواز سے دعا کرنا۔ گڑ گڑانا۔

الشَّوْس۔ بیل کا ڈکارنا۔

البنات۔ سبزی کا بڑھنا۔

الارض۔ لمبی گھاس والی ہونا۔

الجَا س۔ مص۔ لمبی اور شاداب گھاس۔

الجَا س والجا س۔ موٹا اور مضبوط آدمی۔

من الغيث۔ زیادہ بارش۔

جِيُو (س) جَا رَا۔ بالماء۔ اچھو

لگنا۔ پھندا لگنا۔

الجَا س۔ اچھو۔ حلق کا پھندا۔

جَا ش (ن) جَا شَا۔ قلبہ۔ غم یا خوف

سے دل مضطرب ہونا۔

اليسہ۔ متوجہ ہونا۔

الجَا ش۔ دل سینہ۔ کہتے ہیں

رابط الجَا ش یعنی بسا در۔

دیر۔ ج۔ جُووُش۔

الخالصة۔ نفس۔

جَا ص (ن) جَا صَا۔ الماء۔ پینا

جَا ف (ن) جَا فَا وَجَا فَة

تَحْيِيْفَا۔ پچھاڑنا۔ خوف زدہ

کرنا۔ جَا ف الشجرة۔ درخت

کو بڑے اکھیر دینا۔

انجَا قَت۔ الشجرة۔ درخت کا بڑے

اکھیرنا۔

جَيْل (س) جَا لَانَا۔ لنگڑا ہونا۔

جَال (ن) جَا لَا۔ الصوف۔ اون

کا جمع کرنا۔ الصوف

جمع ہونا۔

جِيَالُ وُجِيَالَة۔ بَجُو۔ (دونوں

غیر منصف ہیں،

جِيَا لَة الجُرْح۔ پیپ۔

الجَا د راس۔ باجسہ۔

جَا شِي (ن) جُووَة وَجُووَة۔ الفرس

گھوڑے کا سیاہی مائل سرخ ہونا۔

صفت (أَجُوَا) مَوْن جَا قَا ع

جَا ي (ن) جَا يَا۔ الشیء۔ روکنا

چھپانا۔ الثوب۔ کپڑا سینا

علیہ۔ دانتوں سے کاٹنا۔

جَبَة (ن) جَبَا۔ کاٹنا۔ غالب ہونا۔

(جَبَا) النخلة۔ کھجور میں

پیوند لگانا۔ قلم لگانا۔ گاتھا دینا۔

جَبَب۔ الفرس۔ سفیدی کا گھوڑے کے

زانو اور ایڑی تک پہنچنا۔ صفت

(مُجَبَب)۔ تیز چلنا۔

جَابَة۔ مُجَابَة وَجَبَا بَا۔ غالب آنا

فخر کرنا۔ مقابلہ کرنا۔

تَجَاب۔ الرجلان۔ ایک دوسرے

کی بہن سے شادی کرنا۔

اجْتَب۔ بجرہ پینا۔ الشیء۔ کاٹنا

الجب۔ گھر کنواں۔ گڑھا۔ ج۔ اَجَبَاب۔

وجباب وُجْبَة۔

الْجَبَة۔ بجرہ۔ زرہ۔

من السنان۔ بانس کا وہ حصہ

جہاں نیزہ کا پھل پیوست ہو۔ آنکھ

کے گرد کی بڑی۔ کھر سے ملا ہوا

پنڈلی کا حصہ۔ ج۔ جُبَب و

جِبَاب۔

الْجِبَاب وَالْجِبَاب۔ قحط۔ بعیر

(أَجَب)۔ کوٹان بریدہ اونٹ۔

جَبَا (ن) جَبَا وَجَبَا وَجَبُوَا

وَجَبُوَا۔ البصر۔ نگاہ کا

مکرور ہونا۔ السیف۔ تلوار

کا چرٹ جانا۔ الرجل

خوف کے سبب باز رہنا اور واپس

آنا۔ صفت (مُجَبَا وَجَبَا عَا) یعنی

بزدل۔ جَبَات علیہ الحیة۔

سانپ نے سوراخ سے نکل کر اس

کو مرعوب و خوف زدہ کر دیا۔ جِبَا

علی القوم۔ وہ اچانک ان کے

سامنے نمودار ہوا۔

جَبِي (س) جَبَا۔ چھپنا۔ عنہ

باز رہنا اور ڈرنا۔

أَجَبَا۔ الشیء۔ چھپانا۔ اجبات الارض

کسی زمین میں سرخ سانپ کی چھتری

کابکثرت ہونا۔ اجباً علی القوم۔ کسی کا بلند جگہ سے اچانک نمودار ہونا۔ الجب۔ سرخ رنگ کی سانپ کی چھتری۔ ج۔ آجیو۔ و جباً۔ گیر۔ پہاڑ میں بارش کے پانی کا گڑھا۔ ٹیلہ ارضیٰ مجباً۔ وہ زمین جس میں سرخ سانپ کی چھتری بکثرت پیدا ہو۔

ججیب۔ الرجل۔ سفر کرنا۔ موٹا ہونا۔ الججیبہ۔ چمڑے کا تھیلا۔ ج۔ جباب۔ ڈھول۔ موٹی اور فریہ اونٹنی۔ ماء (ججباب و جباب) بہت پانی۔ الجبٹ۔ بت۔ جادو۔ جادوگر۔ بے خبر آدمی۔

ججخ (ف) ججخا۔ تکر کرنا۔ ججخ القدامہ والکعب فی القمار پانسہ پھینکنا۔

الججخالۃ۔ میگزین۔ اس کے لیے عربی مسکتہ۔ ہے۔ بارود۔ کارتوس ججڈہ (ض) ججڈا و اججڈا۔ کھینچنا۔ ججڈ العنب۔ چھڑا اور خشک ہونا۔

ججاذ۔ مبنی علی الکسرة۔ موت۔ ججبد۔ الکیل۔ ناپ بالاب بھر دینا۔ الججبدۃ۔ بلند بلند اور گول زمین۔ ج۔ ججابد۔

الججبد۔ غنیمت ناشگفتہ ججبد (ن) ججبد و ججبد و ججبد۔ و ججبد العظم۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنا۔

ججبد (ن) ججبد و ججبد و ججبد و ججبد و ججبد۔ شکستہ ہڈی کا درست ہونا۔

الفقیہ۔ غنی بنانا ججبد علی الامیر

کسی کام پر مجبور کرنا۔

اجبہ علی الامیر۔ مجبور کرنا۔ مذہب جبریہ کی طرف منسوب کرنا۔

اججبد و استجبد۔ فقر کے بعد غنی ہونا۔ تججبد۔ تکر کرنا۔ سرکش ہونا۔ صفت۔

ججبد۔ گزری ہوئی حالت کا پھر لوٹ آنا۔ النبت۔ چر جانے کے بعد سبزہ کا پھر آگ آنا۔

تججبد المریض۔ مریض کا چنگا ہونا۔ الجب۔ مص بشکستگی کی درستی۔

عزور۔ مجبوری۔ قضائے الہی کے وقوع کا کلی طور پر مجبورانہ اعتقاد کرنا۔

الجبواء۔ بہادر آدمی۔ الجبارۃ۔ ٹوٹی ہڈیوں کی اصلاح کا پیشہ۔ (والجبیۃ)

شکستہ ہڈی پر باندھنے کی کلٹی یا پٹی۔ ج۔ ججابد۔

الججابد۔ کنگن اور بازو بند الججروت والججروت والججروت۔ قدرت۔ طاقت۔ عظمت ججبد۔

فا۔ ابو ججبد۔ روٹی۔ ام ججبد۔ ہر لیسہ۔ الججباس۔ رائگان ضائع۔ بے بدلہ۔ کہتے ہیں۔

ذہب دمہ ججبارا۔ اس کا خون رائگان گیا۔ وانا منہ خلاوقہ وججبارا۔

میں اس سے پاک و بری ہوں۔ الججبار۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تسلط رکھنے والا۔ قہر و غضب والا۔

مغرور و سرکش۔ برج جوزاء۔ کہتے ہیں۔ طلحہ الججبار۔ یعنی برج جوزاء نے طلوع کیا۔

نخلۃ ججبارۃ۔ اس قدر لمبا کھجور کا درخت کہ اس پر ماتہ نہ پہنچ سکے۔

الججبد۔ مختلف ٹکڑے کرنا۔ الججبدہ۔ کسی کو بخیل بنانا۔

اججبل و تججبل و ججبل۔ المسافر۔ مسافر کا پہاڑ کی جانب جانا۔ پہاڑ میں داخل ہونا۔ اس میں سکونت پذیر

الججریۃ والمججریۃ۔ وہ فرقہ جو انسان کو مجبور محض مانتا ہے۔

ججبرائیل و ججبریل۔ ایک برگزیدہ فرشتہ کا نام، جن کے ذمہ نبیوں کے پاس وحی کا لانا تھا۔

ججبد (ن) ججبد۔ کاٹنا۔ ججبد (ن) ججبد۔ الخبز۔ روٹی کا خشک ہو جانا۔ صفت۔ (ججیز) الخبز۔ بخیل۔ کنبوس۔

الججبدۃ۔ ٹکڑا۔ کہتے ہیں ججبد لہ من مالہ ججبدۃ۔ یعنی اس نے اس کو اپنے مال میں سے ایک حصہ دیا۔

الججیز۔ خشک روٹی۔ تججیس۔ فی مشیتہ۔ تکر و ناز سے چلنا۔

الججیس۔ بزدل۔ کینہ۔ کند خاطر۔ فاسق۔ چونا۔ ریکھ کا بچہ۔ ج۔

آجباس۔ الججیس۔ ریکھ کا بچہ۔ (والججیس والججیس) روٹی۔ ناکارہ۔

الاججیس۔ کمزور۔ بزدل۔ ججبدہ (ض) ججبد۔ اللہ۔ بنانا۔

ججبدہ۔ کہتے ہیں۔ ججبدہ اللہ علی الکرم۔ اللہ نے کرم و شرافت اس کی فطرت میں رکھی ہے۔

ججبل التراب۔ مٹی میں پانی ڈال کر اس کا گارا بنانا۔

ججبدہ۔ مختلف ٹکڑے کرنا۔ الججبدہ۔ کسی کو بخیل بنانا۔

اججبل و تججبل و ججبل۔ المسافر۔ مسافر کا پہاڑ کی جانب جانا۔ پہاڑ میں داخل ہونا۔ اس میں سکونت پذیر

ججبدہ۔ مختلف ٹکڑے کرنا۔ الججبدہ۔ کسی کو بخیل بنانا۔

اججبل و تججبل و ججبل۔ المسافر۔ مسافر کا پہاڑ کی جانب جانا۔ پہاڑ میں داخل ہونا۔ اس میں سکونت پذیر

ججبدہ۔ مختلف ٹکڑے کرنا۔ الججبدہ۔ کسی کو بخیل بنانا۔

اججبل و تججبل و ججبل۔ المسافر۔ مسافر کا پہاڑ کی جانب جانا۔ پہاڑ میں داخل ہونا۔ اس میں سکونت پذیر

ججبدہ۔ مختلف ٹکڑے کرنا۔ الججبدہ۔ کسی کو بخیل بنانا۔

اججبل و تججبل و ججبل۔ المسافر۔ مسافر کا پہاڑ کی جانب جانا۔ پہاڑ میں داخل ہونا۔ اس میں سکونت پذیر

ججبدہ۔ مختلف ٹکڑے کرنا۔ الججبدہ۔ کسی کو بخیل بنانا۔



ہونا۔ کہتے ہیں ”طلب حاجة“
 فاجبیل۔ اس نے اپنی حاجت
 طلب کی۔ مگر محروم رہا۔ ”وَتَجَبَّلَ
 مَا عِنْدَهُ“ اس نے اس کا
 سب کچھ لے لیا۔
 الْجَبَلَةُ وَالْجَبَلَةُ الْجَبَلَةُ وَالْجَبَلَةُ
 چہرہ بدن کا سامنے کا حصہ۔ فطرت
 طبیعت۔ قوت۔ زمین کی سختی۔ جڑ
 اصل۔ کہتے ہیں فلان ذو جبلة
 فلاں سخت مزاج ہے۔
 جِلَّتْهُ عَلَى الْخَيْرِ۔ اس کی طبیعت
 میں خیر و بھلائی ہے۔
 الْجُبِلُ وَالْجُبِلَةُ۔ لوگوں کی جماعت۔
 الْجِبِلُّ۔ مکان کا حصہ۔ بہت بڑا۔ کہتے
 ہیں۔ حَبِیْ جِبِلُّ۔ قبیلہ بہت بڑا
 ہے۔
 الْجَبَل۔ پہاڑ۔ جِبَالُ وَاجْبَالُ
 وَاجْبُلُ۔ کہا جاتا ہے۔
 رَجُلٌ جَبِلٌ۔ یعنی بخیل آدمی۔ وَهُوَ
 جَبِلُ الْوَجْهِ۔ وہ بھدے چہرہ
 والا ہے فلان جَبِلُ الْقَوْمِ فلاں
 اپنی قوم کا سردار اور عالم ہے۔
 ابنة الجبل۔ سانپ۔ آفت
 مصیبت۔ آواز باز گشت۔
 الْجَبِلِي۔ طبعی۔ فطری۔
 الْجِبَالُ۔ آدمی کا جسم۔ کہتے ہیں ”فلانٌ
 خطیر الجبال“ فلاں بڑے بڑے
 ڈیل ڈول والا ہے۔
 الْجَبِيلُ وَالْمَجْبَالُ۔ مٹا۔ بد صورت
 کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ جَبِيلُ الْوَجْهِ“
 بد صورت آدمی۔ وَاَمْرَاةٌ مَجْبَالٌ۔
 بد شکل عورت۔
 سَيْفٌ مَجْبَالٌ۔ موٹی دھار والی تلوار
 الْجَبَلَةُ۔ خشک سال۔ ہر چیز کی زیادتی۔
 اصل۔

الْمَجْبُولُ۔ بڑے بڑے ڈیل ڈول کا
 آدمی۔
 جَبْنٌ (ن) جُبْنًا وَجُبْنًا وَجَبَانَةً۔
 بزدل ہونا۔ کمزور دل والا ہونا۔
 صفت (جبان) ج۔ جُبْنَاء۔ مُزَنٌ
 جَبَانُهُ وَجَبَانُ ج۔ جَبَانَاتُ۔
 جَبْنٌ۔ اللَّسَنُ۔ دودھ کا پینر بنانا
 ————— الرَّجُلُ۔ بزدلی پر بر انگیزتہ
 کرنا۔ (۱) ————— وَاجِبْنٌ وَاجْتَبْنِ
 الْمَرْجُلُ۔ کسی کو بزدلی کی طرف
 منسوب کرنا۔ بزدل پانا۔ اور اسی
 سے ہے یہ کلام ”قَاتِلْنَا كَمَا فَمَا
 ابجنا کما“ یعنی ہم نے تم سے
 قتال کیا تو تم کو بزدل نہیں پایا۔
 تَجَبَّنْ۔ اللَّسَنُ۔ دودھ کا پینر بنانا۔
 ————— الرَّجُلُ۔ مٹا ہونا۔
 الْجُبْنُ وَالْجُبْنُ وَالْجُبْنُ پینر۔
 الْجُبْنَةُ پینر کا ٹکڑا۔
 الْجَبْنِ۔ پیشانی۔ پیشانی کی طرف۔
 ج۔ أَجْبُنُ وَجُبْنُ وَأَجْبَنُ الْجَبْنُ
 بزدل (مذکر و مؤنث) ہر دو کے لیے،
 الْجَبَانُ۔ پینر فروش۔ پینر والا۔ بہت
 بزدل مُزَنٌ جَبَانَةٌ (۲) ————— وَالْجَبَانَةُ
 بلند۔ ہموار اور بے درخت والی زمین
 مقبرہ صحراء۔ ج۔ جَبَايُنُ۔
 الْمَجْبَنَةُ۔ پینر بنانے کی جگہ۔ ڈیری فارم
 عام لوگ بکری کے بچے کے اوجھ کو
 کہتے ہیں۔ جس سے دودھ کا پینر
 بن جاتا ہے۔
 جَبَه (ف) جَبْمًا ————— الرَّجُلُ۔ کسی کی
 پیشانی پر مارنا۔ اچانک آنا۔ حاجت
 سے روک دینا۔ بری طرح پیش آنا۔
 سختی سے پیش آنا۔ الشاءُ الْقَوْمَ۔
 موسم سرما کا ایسے وقت آنا کہ لوگ
 اس کے لیے تیار نہ ہوئے ہوں۔

الْوَجَلُ۔ پانی پر بغیر
 پانی نکلنے کے سامان لے آنا۔
 جَبْرَهُ۔ سر جھکا دینا۔
 اجْتَبَهُ۔ الماء۔ پانی وغیرہ کو ناگوار
 سمجھنا۔
 الْجَبْهَ۔ پیشانی کی چوڑائی۔ اور اس کی
 خوب صورتی۔
 الْجَبْهَةُ۔ پیشانی ج۔ جَبَاهُ وَجَبَاهَاتُ
 جَبْهَةُ الْقَوْمِ۔ قوم کا سردار
 جَبْهَةُ مِنَ النَّاسِ۔ لوگوں کی جماعت
 ذلت۔ کہتے ہیں ”لَقِيتُ مِنْهُ
 جَبْهَةً“ مجھے اس سے ذلت ملی۔
 الْأَجْبَهُ۔ خوبصورت پیشانی والا۔ شیر۔
 مُزَنٌ۔ جَبْمَاءُ۔ جَبَا (ن) جَبَا وَ
 جَبَا وَجَبَا وَجَبَا وَجَبَا وَ
 وَجَبِي (ض) جَبَايَةُ۔ الخداج
 ————— خراج جمع کرنا۔ الماء فی
 الْحَوْضِ۔ پانی کا حوض میں اکٹھا کرنا۔
 جَبْتِي۔ تَجْبِيَةُ۔ مائتوں کو گھنٹوں پر رکھنا۔
 بروقت سجدہ زمین پر رکھنا۔
 اجْبِي۔ ذَرَعٌ۔ کھیتی پکنے سے پہلے بیج
 ڈالنا۔ اور اسی سے یہ کلام ہے من
 اجْبِي فَقَدْ اِرْبِي۔ جس نے کھیتی کے
 پکنے سے پہلے اس کو بیجا اس نے سودی
 لین دین کیا۔
 اجْتَبِي۔ ۵۔ کسی چیز کو پسند کرنا۔ چن لینا۔
 الْجَبَاءُ ج۔ أَجْبَاءُ وَلَا الْمَجَابِيہُ ج۔ جَوَابُ
 اونٹوں کے پانی پینے کا حوض۔ اونٹوں
 کی کھیل۔
 الْمَجْبِي۔ خراج۔ ٹیکس۔
 جَثَّ (ن) جَثًا وَاجْتَثَهُ۔ بیخ کنی
 کرنا۔ جڑ سے اکھڑنا۔
 الْجَثُّ وَالْجُثُّ۔ مری ہوئی مٹی۔ یا شہد
 کی کھٹی۔ کھجور کا چھلکا۔ شہد میں ملے
 ہوئے مکھی کے پروغیرہ۔

الْجُثَّةُ - انسان کا بدن - اس کا زیادہ

استعمال مردہ لاش کے لیے ہے۔

ج - جُثْتُ. الْجَيْثُ. مِنَ التَّخْلِ

کھجور کا پودہ — واحد

(جَيْثُ شَيْءٍ) الْمَجْثَةُ.

وَالْمَجْثَاتُ - گھاس کھودنے کی کھڑی

اجْثَالٌ. الطَّيْرُ - پرند کا پر جھاڑنا —

النَّبْتُ. گھاس کا لمبا اور گنجان ہونا

— الرَّجُلُ - آدمی کا غصہ بڑھ کر لڑائی

کے لیے تیار ہو جانا۔

جَثَلَتْهُ. جُثْلًا. الرَّيْحُ - ہوا کا

اڑنے کا۔ بکھیرنا۔

جَثَلٌ (س) وَجَثَلٌ (ك) جَثَالَةٌ وَ

جُثْلَةٌ. الشَّجَرُ وَالشَّعْرُ درختوں یا

بالوں کا بکثرت ہونا اور گنجان اور

سیاہ ہونا۔ صفت. (جَثَلٌ وَجَثِيلٌ)

الْجَثَلَةُ - چھوٹی۔ ج - جَثَلٌ.

الْجَثَالَةُ - درخت کے بکھرے ہوئے پتے

الْجَثِيلُ وَالْجَاثِيلُ - لاٹ۔ پادری۔

ج - جَثَلَقَهُ. جَمَّ (ن ض) جَمًّا وَ

جَثْمًا. اللَّيْلُ - آدھی رات ہونا۔

الرَّجُلُ أَوِ الطَّاوُزُ أَوِ الْحَيَوَانُ آدمی

پرندہ یا جانور کا سینہ کو زمین سے

لگانا۔ صفت جَاثِمٌ - ج -

جَثْمٌ.

الْجَاثِمُ وَالْجَاثِمَةُ - کلبوں۔ رَجُلٌ

(جَثْمٌ وَجَثَامَةٌ وَجَثْمٌ وَجَثْمٌ)

بہت بیٹھے کا عادی۔ بہت سونے

والا۔

الْجَثَانُ - جسم شخص۔ الْمَجْثَمُ بیٹھنے

کی جگہ۔ ج - مَجَاثِمٌ.

جَثَا (ن) جَثَوًا وَجَثَى (ن ض) جَثِيًّا -

وَجَثِيًّا - دوزانو بیٹھنا۔ پاؤں کی

(انگلیوں کے بل کھڑا ہونا۔ صفت

(جَاثٍ) ج - جَثِيٌّ وَجَثِيٌّ - مُؤَنَّثٌ

جَاثِيَّةٌ -

جَاثِيٌّ - کسی کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھنا۔

أَجَثِيٌّ - کسی کو زانو کے بل بٹھانا۔

تَجَاثَوْا - باہم زانو پر بیٹھنا۔

الْجُثْوَةُ وَالْجُثْوَةُ وَالْجُثْوَةُ - پتھروں

کا ڈھیر۔ مٹی کا ڈھیر۔ ج - جُثِيٌّ وَ

جُثِيٌّ.

جَحْجَحَ - الشَّيْءُ - کسی شے کی تہ کو پہنچ

کر اس کی طرف تیزی کرنا۔

عَنِ الْأَمْرِ - رک جانا۔ مَرَجَانَا.

الْجَحْجَحُ وَالْجَحْجَاحُ - فِیاضِی کی طرف

جلد سبقت کرنے والا سردار۔ ج -

جَحْجَحٌ وَجَحْجَاحٌ وَجَحْجَاحَةٌ

جَحْدٌ - (ن ض) جَحْدًا وَجَحْدًا

کفر کرنا۔ جَظْلَانَا - (ن ض) حَقَّقَهُ

وَجَحَّدَ بِحَقِّهِ - جان بوجھ کر کسی

کے حق سے انکار کرنا — صفت

(جَا حِد) جَحْدٌ (س) جَحْدًا

الشَّيْءُ - کم ہونا — النَّبْتُ

نبات کا دراز نہ ہونا — الْأَرْضُ

زمین کا خشک ہونا — الرَّجُلُ

آدمی کا بے خیر ہونا — صفت

(جَحْدٌ وَجَحْدٌ وَآ جَحْدٌ)

کہتے ہیں عَامٌّ جَحْدٌ - کم بارش

کا سال۔ اَرْضٌ جَحْدَةٌ - خشک

زمین۔

لَا مَدَّ الْجَحْدُودَ - باصطلاح غمیلین۔ وہ

لام جو مانا۔ فِیہ اور کان کے

بعد تاکید نفی کے لیے آتا ہے۔ جیسے

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْفَرَى.

خدا کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ بستیوں کو

ہلاک کرے۔

جَحْدَرَةٌ - پکھاڑنا۔ رُطَّحَانَا.

تَجَحَّدَرُ - الطَّاوُزُ - پر پھڑپھڑا کر پرندے

کا اڑنا۔

الْجَحْدَرُ - بہت قد۔

جَحْدَلَةٌ - پکھاڑنا۔

جَحْرٌ (ن) جَحْرًا وَتَجَحَّرَ وَالْجَحْرُ. الْعَبْتُ

وَالشَّيْءُ - گوہ یا درندے کا

سوراخ یا بھٹ میں داخل ہونا۔

جَحَرَتِ الْعَيْنُ - آنکھ کا دھنس

جانا۔

جَحَرُ الْخَيْرِ عَنَّا - بھلائی ہم کو نہیں

پہنچی۔

أَجَحَرُ وَجَحْرٌ - بل میں داخل ہونے پر مجبور

کرنا۔ وَاجَحَرَتِ السَّمَاءُ - آسمان

کا بارش نہ برسانا۔

أَجَحَرُ الْقَوْمِ - قوم کا قحط سالی اور شدت

میں پڑ جانا۔

— کسی کو تنگی میں ڈالنا —

— الی کذا — مجبور کرنا۔

أَجَحَّرَ - سوراخ بنانا۔

تَجَحَّرَتِ الْعَيْنُ - آنکھ کا اندر کو دھسنے۔

اور اسی سے ہے عِبْنُ (جَحْرَاءِ)

گڑھے میں بیٹھی ہوئی آنکھ۔

الْجَحْرُ - گہرا گڑھا۔

الْجَحْرَةُ وَالْجَحْرَةُ - خشک سال۔

الْجَحْرُ - سوراخ۔ بھٹ۔ ج - الْجَحْسُ

وَجَحْرَةٌ وَآ جَحْرَةٌ.

الْجَا حِرٌ - قافلہ کے پیچھے رہ جانے والا۔

الْجَوَا حِرٌ - وہ جانور جو اپنے گلہ یا ریوڑ سے

بچھڑ کر پیچھے رہ جائیں۔

الْمَجْحِرُ - چھپنے کی جگہ۔ پناہ کی جگہ۔

ج - مَجَا حِرٌ. جَحَسَ وَجَحَشَ (ن ض)

جَحَسًا وَجَحَشًا. ۱ لُجْلُدٌ -

چمڑا چمکنا۔ کھڑ جانا۔

جَا حَسَ وَجَا حَشَى - عَنِ نَفْسِهِ وَعَنِ غَيْرِهِ

بٹھانا۔ دفع کرنا۔ کسی سے مزاحم

ہونا۔ مرقا تہ کرنا۔

الْجَحَشُ - گدھے کا بچہ۔ بچھیرا۔



ج. جَحَاشٌ وَجَحْشَانٌ وَجَشْتَهْ -
الْجَحْشَةُ: گدھے کا مادہ بچہ۔ اون جو
ہاتھ پر لپیٹ کر کاتی جاتی ہے۔

الْجَحُوشُ: تنھا بچہ۔
جَحِطْتُ (س) جُحُوطًا: عَيْنُهُ
آنکھ کا ابھرے ڈھیلے والی ہونا۔
کتے ہیں رجلٌ جَا حِطَّ الْعَيْنَيْنِ
ابھری ہوئی آنکھوں والا آدمی۔

جَحَظَ - الْيَهُدِيُّ: کسی کو گھورنا۔ کسی کی
طرف ٹکٹکی لگانا۔

الْجَا حِظَانٌ: دونوں آنکھوں کے ڈھیلے۔
جَحْفَهْ (ف) جَحِيلُنَا: بہالے جانا۔ برباد
کرنا۔ ۵۔ بِرَجْلِهِ: لات مارنا۔
جحفہ معہ ولہ علی غیرہ۔
مائل ہونا۔ لہ الطعام کھانا
نکلانا۔

يُحِفُّ - الرَّجُلُ: آدمی کا بتلائے ہریضہ
ہونا۔

الْجَحْفُ - السَّيْلُ بِهِ: سیلاب کا کسی
کو بہالے جانا۔

الدَّهْرُ بِالْإِنْسَانِ: زمانہ کا لوگوں کو جڑ
سے مٹانا۔ ہلاک کرنا۔

فُلَانٌ بَعِيدٌ: کسی کا اپنے غلام
کو طاقت سے اونچا کام سپرد کرنا۔
اجحاف بطور استعارہ نقص فاحش
میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

جَا حَفَهْ - مَزَاحِمَتٌ كَرْنَا: جاحف
عنه۔ مدافعت کرنا۔

تَجَا حَفُوا: لالچی اور تلواروں سے لڑنا۔
— بِالْكَوَةِ: گیند کو بلے کے ساتھ

ایک دوسرے سے چھیننا۔
اجْتَحَفَهْ - پھیننا۔ جڑ سے اکھیڑنا۔
ہلاک کرنا۔

— مَاءُ الْبَيْتِ: کنوئیں کا تمام
پانی نکال کر خشک کر دینا۔

— السَّيْلُ الْوَادِي: سیلاب کا
وادی کو کھود کر بہالے جانا۔

الْجَحْفَةُ وَالْجَحْفَةُ: حوص کے جواب
میں بچا ہوا پانی۔

السَّيْلُ وَالْمَوْتُ (الْجَحَافُ):
عام تباہی مچانے والا سیلاب اور

موت الْجَحَافُ - ہریضہ کے اسہال
الْمَجْحُوفُ - ہریضہ میں مبتلا آدمی۔

الْجَحَافُ - جَنَگٌ - لُطَائِيٌّ:
الْمَجْحُوفَةُ: مصیبت۔

جَحْفَلَهْ جَحْفَلَةً: پچھاڑنا۔ پھینکنا۔
دھمکانا۔ تنبیہ کرنا۔

تَجَحَّفَلُوا - جمع ہونا۔
الْجَحْفَلُ - لشکر ہزار۔ جرحافل

رَجُلٌ جَحْفَلٌ: بڑی قدر کا آدمی
بڑے مرتبہ و درجہ کا آدمی۔

الْجَحْفَلَةُ: کھروالے جانور کا ہونٹ۔
جَحْلَهْ (ن) جَحْلًا وَجَحْلًا: پچھاڑنا

الْجَحْلُ: جرحول و جَحْلَان - گرگٹ
گوہ کا بچہ۔ گبریلہ۔ شہد کی مکھیوں کی

ملکہ۔ — جرحال،
بڑی مشک۔ کتے میں دجل جَحْلٌ۔

موٹا کشادہ پیشانی والا آدمی۔
الْجَحَالُ: زہر۔ بڑی چٹان۔ پھاڑ

ہر بڑی چیز۔ جحم (ف) جَحْمًا:
النَّاسُ - آگ بھڑکانا۔

الْعَيْنُ: آنکھ کھولنا۔
۵۔ عَنِ الْأَمْرِ: کسی کام سے

روکنا۔ باز رکھنا۔
جَحْمَتُ (س) جَحْمًا وَجَحْمًا: جَحْمَتُ

(ن) جَحْمًا النَّاسُ: آگ کا بھڑکانا
جَحْمَهْ - بعینہ۔ گھورنا۔ تیز نگاہ

سے دیکھنا۔
اجحم - عَنِ الْأَمْرِ - رکنا۔ باز رہنا۔

اجحمت الناس - آگ کا تیز بھڑکانا۔

تَجَحَّم - تَنَگ ہونا۔ چلنا۔
الْجَا حِم - فاء۔ دہکتی ہوئی چنگاری۔

من الحرب سخت جنگ اور
گھمسان کی لڑائی — کہا جاتا

ہے
نَارٌ جَا حِمَةٌ: تیز آگ۔ عَيْنٌ جَا حِمَةٌ:
ٹکٹکی لگانے والی آنکھ۔

الْجَحِيمُ - دوزخ۔ گرہے میں سخت
دہکتی ہوئی آگ۔ سخت گرم جگہ۔

جُحْمَةٌ - النَّارُ - آگ کی بھڑک۔ ج۔
جُحْم -

الْجُحَامُ - آنکھوں کا درم۔
الْأَجْحَمُ - سرخ آنکھوں والا۔ سوچی ہوئی

آنکھوں والا۔
الْجَحْمَرُ ش - بہت بوڑھی عورت۔

بد صورت عورت۔ موٹا خرگوش۔ ج۔
جَحَامَر - تصغیر جَحْمِي -

جَحْن (س) جَحْنًا - الصَّبِيُّ - خوراک کی
خرابی کی وجہ سے بچہ کا کمزور ہونا۔

صفت (جَحْن) -
جَحْن (ن) جَحْنًا وَاجْحَنَ وَجَحْنٌ:

فقر یا کجی کے سبب بال بچوں کو
روزی کی تکلیف میں ڈالنا۔

اجْحَنَهْ - — بری خوراک دینا۔
الْجَحْن - دیر میں جوان ہونے والا

من الذبابة کمزور اور چھوٹا پودا۔
بَحَادَن، جَحْوًا - چلنا۔ بال مکان

کسی جگہ رہنا۔
اجْتَحَاَهْ - جڑ سے اکھیڑنا۔ بیخ کنی

کرنا۔
الْبَحْوَةُ - ایک قدم۔

جَحْر (ض) جَحْرًا - لیٹنا اور بدن کو
ڈھیلا چھوڑ دینا۔ ایک جگہ سے

دوسری جگہ منتقل ہونا۔
— بِرَجْلِهِ - پاؤں سے خاک

—

اڑانا۔
جَعَّرَ (ف) جَعَّرًا وَجَعَّرَ - البئر۔
کوئیں کو کشادہ اور وسیع کرنا۔
جَعَّرَ (س) جَعَّرًا - جَوَّفَ البئر۔
کوئیں کا کشادہ ہونا۔
تَجَعَّرَ - الحوض - حوض کا پانی
خشک ہو کر اس کی مٹی کا ترخ جانا۔
الجَعْرُ - بسیار غور۔ بزدل۔
جَحَفَ (ن ض) وَجَحَفَ (س) جَحَفًا
وَجَحِيفًا - اپنی حد سے زیادہ فخر
کرنا۔ صفت (جَحَاف)۔
الجَحِيفُ - مص۔ بھاری لشکر بہت متکبر
انسان کے پیٹ کی آواز۔ نفس و
روح۔ کہتے ہیں۔ وقع ذلك في
جَحِيفِي - یہ بات میرے
دل میں آئی۔
جَعَانِ (ن) جَعْنًا - الكوس - کوزہ
کو اوندھا کرنا۔
جَعْنِي وَتَجَعْنِي - الكوس - اوندھا ہونا
— الشايحُ کُبرُ اہونا۔ خمیدہ
پشت ہونا۔ — اللَّيْلُ۔
رات کا گزرنے۔
جَدَّ (ن) جَدًّا - في عين القوم۔
قوم کی نظروں میں بڑا ہونا۔
جَدَّ (ض) جَدَّةً - الثوب - کپڑے کا
نیا ہونا۔
(جَدًّا) الشئ - کاٹنا (ض۔ ن)۔
(جَدًّا) - کوشش کرنا فی الامر
قائم کرنا۔ اہتمام کرنا۔ جلدی کرنا
— بلے الامر۔ سخت ہونا۔
جَدَّ (س) جَدَّدًا - الشئ - او
الصراع - پستان یا تھن کا دودھ
خشک ہونا۔ صفت (آجَدًا) اور
اونٹنی کی صفت (جَدَّاء)۔
کہتے ہیں "سنة جداء"۔ قحط کا

سال۔
جَدَّ (س) جَدًّا وَجَدَّ - صاحب
نصیب ہونا۔ صفت (مجدود)۔
کہتے ہیں۔ "جددت يا فلان"
تم خوش قسمت ہو۔
جَدَّدُوا أَجَدَّ - الشئ - نیا کرنا اجد
ثوبًا۔ نیا کپڑا پہننا۔ اجدُّ الامر
کسی امر کی خوب تحقیق کرنا۔
— فی الامر کسی معاملہ میں
سنجیدگی اختیار کرنا۔ کوشش کرنا۔
آجَدَ الطريق - راستہ کا سخت و
ہموار ہونا۔ — الرجل - کسی کا
سخت و ہموار زمین پر چلنا۔
جَادَّةً - مجادَّةً - فی الامر - کسی
سے تحقیق کرنا۔
أَسَجَدَّ - الشئ - نیا ہونا۔ الشئ
نیا کرنا یا نیا پانا۔ — الثوب -
نیا کپڑا پہننا۔
الجَدُّ - مص - دادا۔ نانا۔ ج۔ آجَدًا
وَجَدُّ وَجَدُّ وَدَّةً - مژنٹ
جَدَّةً -
الجَدُّ - خوش قسمتی۔ بزرگی۔ عظمت۔ دولت
رزق۔ کنارہ نہر۔ کہتے ہیں عَشْرُ
جَدًّا وَتَعَسَّ جَدًّا - وہ ٹوٹے ہیں
رہا یا ہلاک ہوا۔
الجَدُّ - مص۔ کوشش۔ سنجیدگی۔ جلدی
پوری تحقیق کو پہنچا ہوا۔ فلان عالم
جدُّ عالم فلان چوٹی کا عالم ہے
وَعَظِيمٌ جَدًّا بہت بڑی عظمت
رکھنے والا۔ جَدًّا کا نصب مصدر
کی وجہ سے ہے۔
الجَدُّ - حصہ۔ کہتے ہیں "فلان ذو جَدِّ"
فی کذا۔ فلان اس معاملہ میں صاحب
نصیب ہے۔ بہت پانی والا کنواں
کم پانی والا کنواں۔ صحرا کے کنارے

پر ٹھوڑا سا پانی۔ سمندر کا کنارہ۔ ہر
چیز کا کنارہ۔ — (والجَدِّي)
بڑی قسمت والا۔
الجَدُّ - سخت و ہموار زمین۔ اسی سے
یہ مثل ہے۔ من سلك الجَدَّ
أمن العناس۔ جو سخت زمین پر چلتا
ہے وہ ٹھوکر سے محفوظ رہتا ہے۔
باریک ریت۔ ج۔ آجَدًا۔
الجَدَّة - نہر کا کنارہ۔ کہتے ہیں کھلے کا پٹہ
کپڑے کا ٹکڑا۔
وَجَدَّةُ الثوب - کپڑے کا نیا ہونا۔
الجَدَّة - نشان۔ طریقہ۔ کہتے ہیں رُكْبُ
جَدَّةِ الامر وَجَدَّةً من
الامر۔ اس نے رائے قائم کی
ج۔ جَدَّد۔
الجَدَّ - محنتی۔ سنجیدہ۔
الجَدَّة - الجَدَّ - کا مژنٹ۔ شاہراہ۔ سڑک
کایج۔ ج۔ جَوَّاد۔
الجَدَّادُ - الجَدَّادُ - کھجور توڑنا۔
جَدَّادَةُ النَّحْلِ وغیرہ۔ کھجور وغیرہ کا جڑ
سے اکھڑا ہوا درخت۔
الجَدَّاد - موباف۔ آپس میں الجھ ہوئے
یا گتھے ہوئے ڈورے یا درخت کی
شاخیں۔
الجَدِيدُ - نیا۔ ایک قسم کا پرانا سکے۔
ج۔ جَدَّد۔
الجَدِيدُ وَالْمَجْدُودُ - نصیب و رکھنا ہوا
الجَدِيدَانِ وَالْأَجْدَانِ - دن رات
تشنیہ و لی شکل میں ان کا استعمال
ہے۔ تنہا دن یا رات کے لیے جدید
یا اجد نہیں کہہ سکتے۔
الْمَجْدُودُ - مفع۔ من الاكسيّة۔
مختلف رنگ کی دھاریوں کا کپڑا۔
جَدَّبَ (ن ض) جَدَّبًا وَجَدَّبَ (ن)۔
جَدُّوبَةٌ وَتَجَدَّبَ - المکان

<p>مناسب - ج - جَدُّون - الْجَدُّس - ج - جُدَّسَان و (الْجَدَّاس) ج جُدَّس و جُدَّس - دیوار - الْجَدُّس وَالْجَدَّس - ایک قسم کی ریگستانی نبات - ج - جُدُّوس - واحد (جَدَّرَة و جَدَّرَة) الْجَدَّرِي وَالْجَدَّاسِي - چمپک الْمَجْدَار - دھوکا - وہ نشان جو کھیت میں پرندوں اور جانوروں کے ڈرانے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے - الْمَجْدَرَة - لائق - کہتے ہیں - إِنَّه مَجْدَرَة لَان يَفْعَل كَذَا وہ ایسا کرنے کے لائق ہے - (اس میں مذکر، مؤنث، واحد، جمع سب برابر ہیں) ارضٌ مَجْدَرَة - بہت چمپک والی زمین - وہ ملک جس میں چمپک کی وبا پھیلی ہوئی ہو - الْمَجْدُور - چمپک میں مبتلا - کم گوشت والا کہتے ہیں - إِنَّهْ مَجْدُور اَنْ يَفْعَل كَذَا - وہ اس کے کرنے کا اہل ہے جَدَّعَ (ف) جَدَّعًا - الالف و ما شاکلہ - ناک یا ہونٹ وغیرہ کاٹنا - کہا جاتا ہے لَا مَرَّ مَا جَدَّعَ قَصِيرٌ أَنْفَهُ - قصیر نے اپنی ناک کسی خاص مصلحت سے کاٹی جَدَّعَ فَلَانًا - کسی کو قید کرنا - باز رکھنا - الرَّجُلُ عِيَالَهُ - کسی کا ہال بچوں کے نان نفقہ کو روک لینا - (وَجَدَّعَ وَاجْدَعُ) الْوَلَدَ بچہ کو بری خوراک دینا - جَدَّعَ (س) جَدَّعًا - خوراک کا برا ہونا - صفت (جَدَّع) - الرَّجُلُ ناک کا کٹ جانا - صفت - (اجْدَع)</p>	<p>کے ستو کو کھولا - چنانچہ اردو میں اس کے ہم معنی ضرب المثل مشہور ہے - "علوانی کی دکان اور دادا جی کی فاختہ" جَدَّحَ - الْمَجْدَح - ستو وغیرہ گھولنے کا آلہ - ستارہ - الْمَجْدَاح - سمندر کا کنارہ - ج - مَجَادِح - تَجَادِيح السَّمَاء پنچتر - واحد - وَمَجْدَح - کہتے ہیں - ارسلت السماء تَجَادِيح الغيث - یعنی آسمان نے بارش کے پنچتروں کو آزاد چھوڑ دیا - جَدَّسَ - (ن) جَدَّسًا و جُدَّسًا - وَجُدَّسَ - چمپک نکلتا - صفت (مَجْدُوس - و مَجْدَس - نَجْدَرَة (ن) جَدَّسًا - لائق و مناسب بنانا - الْجَدَّاس - دیواروں سے گھرنا - الرَّجُل - کسی کا دیوار کی اوٹ میں ہو جانا - جَدَّسَ وَجَدَّسَ (ن) جَدَّارَة وَجَدَّسَ - و آجَدَّسًا - النبت - پودہ کا پھوٹنا کونسل نکالنا جَدَّسَ (ك) جَدَّاسَةً - بکذا لائق و اہل ہونا - صفت - (جَدَّيْر) کہتے ہیں - ہو جدید بکذا او کذا - ج جدیرون و جُدَّسَاء - مؤنث جَدَّيْرَة - ج - جَدَّيْرَات و جَدَّايْر جَدَّس - وَاَجْتَدَّسَ - الحائِط - دیوار بنانا - اور اس پر پلاسٹر کرنا - الْجَدَّس - و الْجَدَّس - واحد - جُدَّرَة و جَدَّرَة - پھنسیاں چوڑ یا زخم کا نشان - الْجَدَّار - بالشیء - و لہ - لائق -</p>	<p>کسی جگہ کا بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو جانا - صفت (جَدَّاب وَاَجْدَب - جَدَّاب - جَدُّوب و مَجْدُوب) جَدَّاب - فَلَانًا - کسی پر عیب لگانا - اَجْدَب - المکان - بارش نہ ہونے کی وجہ سے کسی جگہ کا خشک ہو جانا - القوم - قوم کا قحط زدہ ہونا - الارض - زمین کو خشک پانا - فَلَانًا - ممان داری نہ پانا - جَدَّابَ - کمزور کرنا - تَجَدَّاب - عیب دار ہونا - الْجَدَّاب - مص - قحط سالی - عیب - کہتے ہیں مکان جَدَّاب قحط زدہ مقام - مؤنث جَدَّابَ ج - جُدُّوب - کہتے ہیں ارضوں جُدُّوب و ارضوں جَدَّاب قحط زدہ زمینیں - الْجَدُّوب وَالْجَدَّاب - قحط زدہ ارضٌ جَدَّابَاء - قحط زدہ زمین المجداب - من الارضی - بنجر زمین ج - مجادب - الْاَجَادِب - وہ زمین جس میں کوئی روئیدگی نہ ہو - مکان (مَجْدُوب) قحط زدہ مقام - الْجَدَّاث - قبر - ج - اَجْدَاث وَاَجْدُث اَجْتَدَّاث - قبر بنانا - الْجُدُّج - سخت ہوا رزمین - جھینگڑ - جَدَّح - ج - جَدَّاح (ف) جَدَّحًا وَاَجَّاح وَاَجْتَدَّح - ستو گھولنا - جَدَّح السويق فی اللبن - ستو کو دودھ میں گھولا - کہتے ہیں - جَدَّحٌ جَوَّيْنٌ من سويق غیرہ - یعنی جوڑوں نے دوسرے</p>
--	--	---



جَدَّع - کسی سے "جَدَّعًا لَكَ" کہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تجھ کو عیب وار کرے اور خیر تجھ سے روک دے۔

جَادِعَةٌ مَجَادِعَةٌ وَجَدَامًا - گالی دینا۔ جھگڑا کرنا۔

تَجَادَعَا - ایک دوسرے سے جھگڑنا۔

ایک دوسرے کو گالی دینا۔ اور اسی

سے یہ قول ہے: "تَرَكْتُ الْبِلَادَ

تَتَجَادَعُ أَفَاعِيهَا" میں نے

ملک کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہاں

کے شیر ایک دوسرے کو کھا رہے

تھے۔

الْجَدَّعَةُ - کٹنے کے بعد عضو کا بچا ہوا حصہ۔

جَدَّاعٌ - بروزن قطار۔ سخت سال۔

کہتے ہیں: أَحْجَفْتُ بِهِمْ جَدَّاعٍ

ان کو قحط سالی نے برباد کیا۔

الْمِجْدَعُ - عضو کا ٹٹنے کا اوزار۔

جَدَفَ (ض) جُدُّوفاً الطَّيْرُ - پرندے کا

کٹے ہوئے پروں سے اڑنا۔

— الطَّيْبِيُّ - بہن کا چھوٹے

قدم سے چلنا — تیز چلنے میں آدمی

کا ہاتھ بلانا۔

جَدَفَ (ض) جُدْفًا - الشَّيْءُ - کسی شے

کو کاٹنا۔ الْمَلَاخُ السَّقِينَةُ - ملاح

کا کشتی کو چپو سے کھینا۔ السَّمَاءُ

بِالْمَلَاخِ - آسمان کا برف گرنا۔

جَدَفَ - نعمت کی ناشکری کرنا۔ کہتے

ہیں: لَا تَجِدُوا بِنِعْمِ اللَّهِ

اللَّهِ كُنُفًا شُكْرًا شُكْرًا شُكْرًا

— الْمَلَاخُ - ملاح کا چپو سے

ڈونگا چلانا — عَلَى اللَّهِ - خدائے

تعالیٰ کے متعلق کفر اور توہین آمیز

باتیں کہنا۔

التَّجْدِيفُ - کلمہ کفر۔ ج۔ تجادیف

جُدِّتْ عَلَيْهِ - نگلی میں مبتلا کیا جانا اور

اسی سے ہے یہ کلام: "وَأَنَّهُ لَمَجْدُفٌ

عَلَيْهِ الْعِيشُ" وہ تنگی کی زندگی

بسر کر رہا ہے۔

اجْدَفَ الْقَوْمُ - چلتا۔ شور مچانا۔

الْجُدْفَةُ - شور و شغب —

(مجدوف، المجدف) - چھوٹے ہاتھ والا۔

کٹے ہاتھ والا۔ بخیل مجدوف

الْأَزَارُ وَالْقَمِيضُ - چھوٹے ازار

اور چھوٹے قمیض والا۔

الْمِجْدَافُ - چپو۔ مجدافا الطیر۔

پرند کے دونوں بازو۔ ج۔ مجداف

الجدافی والجدافاء - غنیمت۔

جَدَلَهُ (ن) جَدَلًا - الجَل - رسی

بٹنا۔

جَدَلُ (س) جَدَلًا - الرَّجُلُ - آدمی کا

سخت جھگڑا ہونا۔

(س) وَجَدَلُ (ن) جَدَلًا - الْحَبُّ

دانہ کا خوشہ میں سخت ہونا۔

— الْوَلَدُ - بچہ کا قوت دار

اور سخت بڑی والا ہونا۔

جَدَلَهُ (ض) ن) جَدَلًا وَجَدَلَهُ

پچھاڑ دینا۔ زمین پر گرنا دینا۔

جَدَلُ الشَّعْرِ - بالوں کو گوندھنا۔

جادل - جدالاً ومجادلة - جھگڑا

کرنا۔

تَجَادَلَا - ایک دوسرے سے جھگڑنا۔

تَجَدَّلَ وَالْجَدَلُ - زمین پر پڑکا دینا۔

الْجَدَلُ - مص۔ سخت۔ مضبوط۔ عضو۔

ج۔ جَدُولُ -

الْجَدَلُ - جھگڑا۔ جھگڑے میں مہارت۔

الْجَدَلَةُ - ہاون کی موصلی۔ ہاون کا دستہ۔

الجدالة - زمین۔ جَدَالَةُ الْخَلْقِ

گھٹیلے بدن والا۔

الجدیل - جی ہوئی رسی ج۔ جَدُولُ -

جُدُلُ الْإِنْسَانِ - انسان کے ہاتھ پیر کی

کھوکھلی بڑی۔

الجديلة - طریقہ۔ کہتے ہیں "عمل علی

جدیلته" اس نے اپنے طریقہ پر

کام کیا۔ قبیحہ۔ گوشہ۔ طرف۔

رائے کی پختگی۔

الاجدلی والاجدل - شکراً ساعد

الجدل - خوبصورت گٹھی ہوئی کلائی۔

ج۔ اجادل - دروغ جَدَلًا -

مضبوط زہ۔ ج۔ جُدُلُ -

الجدال - والجدیل والجدل و

المجدال - بہت جھگڑاؤ۔

المجدل - محل۔ ج۔ مجدال -

المجدل - لوگوں کی جماعت۔

المجدول - بٹا ہوا۔ یا مضبوط بٹا ہوا۔

الجدول والجدول - چھوٹی نر منطقی

قضیوں کی شکل اور حساب میں جدول

الضرب اسی سے ہے۔ ج۔ جَدَاوِلُ -

کہتے ہیں: استقام جدول القوم

قوم کا کام انتظام پذیر ہوا۔

جَدَمَ (ن) جَدَمًا - کاٹنا۔ جَدَمَتِ

النخل - درخت خرما کا پھل دار ہو

کر خشک ہونا — صفت (جدام)

الجدمة - پست قد آدمی۔

(س) وَالْجَدَامَةُ - وہ بالیاں

جو پہلی مرتبہ گاہنے میں نہ لگیں۔

الجدمة - گھٹیا درجہ کے لوگ۔

أَجْدَمَ - کٹ جانا۔

جداد (ن) جدواً علیہ - کسی کو عطیہ

دینا۔ واجتدای واستجدی

فلاناً - کسی سے حاجت طلب کرنا۔

عطیہ اور بخشش مانگنا۔

أَجْدَى - إجداء - عطیہ پانا۔

فلاناً - کسی کو عطیہ دینا۔

الامر - نفع دینا۔ کہتے ہیں: مَا

يَجْدِي عَنْكَ هَذَا - تم کو یہ
نفع نہیں بخشنے گا۔
اجْتَدَا - عطیہ دینا۔
الجَدَا - ہمہ گیر بارش۔ عام بارش
(الْجَدَاءُ) نفع
بخش
الْجَادِي - عطیہ مانگنے والا۔ عطیہ دینے
والا۔
الْجَادِي - زعفران۔
الْجَدْوِي - عطیہ۔
الْأَجْدَى - زیادہ نفع بخش۔
الْجَدِي - سختی۔ الْجَدَوَّة - گلہ
ریوڑ۔
جَدِي (ض) جَدِيًّا - عطیہ
مانگنا۔
أَجْدَى - أَجْدَاءٌ - الْجَرْحُ - زخم کا
بہنا۔
الْجَدِي - پہلے سال کا بکری کا بچہ۔
ج - أَجْدٍ وَجَدَاءٌ وَجَدِيَّانَ
قطب کے پاس کا ایک ستارہ
جس سے قبلہ کی شناخت کی
جاتی ہے۔ اور اس کو جدی الفرقہ
بھی کہتے ہیں۔ آسمان کے ایک برج
کا نام جو برج دلو کے متصل ہے۔
الْجَدِيَّة - زمین یا پالان کے نیچے
کی گدی۔
ج - جَدِي وَجَدِيَّات -
جَد - (ن، جَدَا - کاٹنا
توڑنا۔
جَدَنِي سیرہ - وہ تیز تیز قدم
چلا۔
جَدَد - قوم سے اپنی پیروی چاہنا۔ مگر
کسی کا پیروی نہ کرنا۔
الْجَد - کاٹنا۔ ٹوٹنا۔
تَجَدَّد - ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔

الْجَدَاذ وَالْجَدَاذ وَالْجَدَاذ
توڑا ہوا ٹکڑا۔ سونے کا ڈالا۔
الْجَدَاذ - ہر شے کی زیادتی۔
کہتے ہیں۔ جَدَاذُ شَيْءٍ عَلَيْهِ
کذا - وہ اس سے اس قدر
زیادہ ہے۔
الْجَدَاذَات - کٹی ہوئی شے کے باریک
ٹکڑے یا ریزے۔
کہتے ہیں۔ عِنْدِي جَدَاذَات
مِنَ الْفِصَّةِ - میرے پاس چاندی
کے ریزے ہیں۔
الْجَدَد - کٹی ہوئی شے کا چھوٹا ٹکڑا۔
کہتے ہیں۔ ثَرَتْ إِلَى الصَّنَمِ
فَكَسَّرَتْهُ أَجْدَاذًا - میں بت
کی طرف سمٹا۔ اور اس کے ٹکڑے
ٹکڑے کر دیے۔
الْجَدَّة - ٹکڑا۔
الْأَجْد - ٹوٹا ہوا یونٹ۔ جَدَاءُ
جَدِيَّة (ض) جَدْبًا وَاجْتَدَبَهُ
الِيه - کھینچنا۔
جَذَبَ الشَّهْرُ - مہینہ کا اکثر حصہ
گزر جانا۔
جَذَبَةُ النَّاقَةِ - اونٹنی کا دودھ
کم ہونا۔
المه عن أمه - بچیرے کا
دودھ چھڑانا۔
جَذَبَهُ - الشَّيْءُ - کسی چیز کے
بارے میں کش کش کرنا۔
تَجَذَّبَا - الشَّيْءُ - کسی چیز کے بارے
میں باہم کش کش کرنا۔
تَجَذَّب - اللِّسَن - دودھ پینا۔
الْجَذَب - کھینچ جانا۔
الْجَذَبُ فِي السَّيْرِ - تیز چلنا۔
دور تک جانا۔ کہتے ہیں انْجَذَبَ
بِهَلْمِ السَّيْرِ - وہ دور تک چلے

گئے۔
الْجَذَب - فا - کم دودھ کی اونٹنی۔
ج - جَوَازِب وَجَذَاب -
الْجَذْبَةُ - بھڑکی مسافت۔ کہتے
ہیں بینہ و بین المنزل جذبة۔
اس کے اور گھر کے درمیان لمبی
مسافت ہے۔
الْجَذَاب - موت کے لیے اسم علم۔
الْجَذَابِيَّة - کھینچنے کی طاقت و قوت
الْجَذَابَةُ - چھوٹی پڑیوں کا شکار کرنے
کے لیے بالوں کا پھندا۔
جَذَرَةٌ (ن، جَذَرًا - کاٹنا۔ جڑ
سے اکھڑنا۔
جَذَرَسَ - الْعَدَد - عدد کا جذر
حاصل کرنا۔
جَذَرَهُ وَاجَذَرَاهُ - جڑ سے
اکھڑنا۔
انْجَذَرَسَ - جڑ سے اکھڑنا۔
الْجَذَرُ وَالْجَذَرُ جُزْجَسَ
النبات - نباتات کی زمین میں پھیلی
ہوئی جڑیں۔ ج - جُذُوسًا - خود
میں ضرب دیا ہوا عدد۔ مثلاً دس
سو کا جذر ہے کیونکہ دس کو جب
دس ہی میں ضرب دیتے ہیں، تو سو
حاصل ہوتے ہیں۔
جَذَرَسَ الْبَقِيرُ - گائے کا
سینگ۔
الْجَذَرِيَّة - وہ دانت جو رباعیہ کے
بعد ہو۔
الْمَجَذُوس - جذر کا حاصل ضرب مثلاً سو
دس کا مجذور ہے۔
الْجَوْذَسُ وَالْجَوْذَسُ وَالْجَوْذَسُ
نیل گائے کا بچہ۔ ج - جَوَازِسَ
جَوَازِسَ -
الْمَجَذَسَ - بہت پست قد۔

جَذَعٌ (ف) جَذَعًا - الدابة -
جانور کو بغیر چارہ کے روکے رکھنا۔
بین البعیرین - دواؤں کا
ایک رسی میں باندھنا۔
الجذع - من البهاائم - چھوٹا
بچہ۔
ج - جذاع وجذعان - اور
اسی سے ہے۔ جذعان الجبال
چھوٹے پہاڑ - نوجوان - اور کہتے ہیں
فلان فی هذا الامر جذع -
فلاں اس معاملہ میں نوآموز ہے۔
واعدت الامر جذعًا -
میں نے اس کام کو پھر شروع سے
کیا - کہا جاتا ہے - ذہبوا
(جذع مذع) بنی برف - یعنی
وہ متفرق اور جدا جدا چلے
گئے۔

الجذع - درخت کا تنہ - ج -
جذوع و أجذاع - جذع
الانسان - انسان کا دھڑ ہاتھوں
ٹانگوں اور سر کے علاوہ جسم
انسانی۔

المجذع - والمجذع - بے اصل
اور بے ثبات شے۔

جَذَفَ (ض) جَذْفًا - و أَجَذَفَ
الطائر - پرندہ کا تیز اڑنا۔
جَذَفَتْ و اجذفت المرأة -
عورت کا چھوٹے قدم سے چلنا۔
جَذَفَتْ و جَذَفَتْ - القارب -
ڈونگے کو چپو سے کھینا۔
الشیء - کاٹنا۔

تَجَذَفَ - فی مشیہ - تیز رفتاری
سے چلنا۔
المجذاف - کشتی چلانے کا چپو۔
جَذَلَ (س) جَذَلًا و اجْتَذَلَ -

خوش ہونا۔
صفت (جَذَلَ و جَذَلَان) -
ج - جَذَلَان - مونث - جَذَلَةٌ
جَذَلِي -
جَذَلَ (ن) جَذُولًا و اسْتَجَذَلَ -
سیدھا کھڑا ہونا۔

اجْذَلْہ - خوش کرنا۔
تَجَاذَلَ - القوم - ایک دوسرے
سے کینہ و دشمنی رکھنا۔

الجذَل - من الشجرة - درخت
کا تنہ - ٹھنڈ - کہتے ہیں - عاد
الشیء الی جَذَلِہ - چیز اپنی اصل

کی طرف لوٹ آئی - وہ لکڑی جو
خارش والے اونٹ کے کھلانے
کے لیے گاڑی جائے - جَذَلِیل
اس کی تصویر ہے اور اسی سے ہے

یہ کلام انا مجذیلک الممحلک
میں کھلانے کی لکڑی ہوں - یہ مثل
اس کے لیے ہے جو قومی الرائے
اور پناہ دینے والا ہو - اور کہتے

ہیں - ہو جَذَلَ مال - وہ
مال کا بہترین منتظم ہے - ج -

جَذَالَ و أَجْذَلَ و جَذُول
و جَذُولَة -

جَذَمَ (ض) جَذَمًا و جَذَمَةً
جلدی سے کاٹنا - صفت - (جَذَمِیم
و أَجْذَمَ -)

جَذَمَ - (س) جَذَمًا - کٹے ہوئے
ہاتھ یا کٹی ہوئی انگلیوں والا ہونا۔
جَذَمَ - کوڑھی ہونا۔

صفت - (أَجْذَمَ و مَجْذُومَ
و مَجْذَمَ -)

أَجْذَمَ - عن الشیء - باز رہنا۔
علیہ - پختہ ارادہ کرنا۔
فی سیرہ - تیز چلنا۔

يَذَعُ - ہاتھ کاٹنا۔
الْجَذَم - و تَجَذَمَ - کٹ جانا۔
الجذم - والجذم - جڑ - تنہ
ج (جذوم و أجذام)
الجذمة و الجذمة - وہ جگہ
جہاں سے ہاتھ کاٹا ہو۔

الجذمة - ٹکڑا - چابک۔
الجذمة - ٹنڈاپن۔

الْجُذَام - ہاتھ کاٹنا انگلیاں
کٹا - مونث - جذعی یا جَذَمَاء -
کہتے ہیں ہو أَجْذَمُ الحجة -
یعنی اس کے پاس نہ تو دلیل ہے نہ
قوت گویائی و بیان۔

الجذامة - کٹی ہوئی کھیتی کا بقیہ حصہ۔
المجذام - و المجذامة - امور
میں قطعی و فوری فیصلہ دینے والا۔
رشتہ دوستی کو جلد ختم کر دینے
والا۔

جَذَا (ن) جَذَوًا و جَذَوًا -
و أَجْذَى -

علی الشیء - سیدھا کھڑا رہنا۔
تَجَاذَى - الحَجَر - پتھر اٹھانا۔

الجذاة - بڑے درختوں کی جڑیں۔
ج - جَذَاء -

الجذوة و الجذوة و الجذوة
دکھتا ہوا انگارہ - یا جلتی ہوئی
چنگاری۔

ج - جَذَى - و جَذَى و جَذَا -
کہتے ہیں - فلاں جذوة شر
فلاں شروفساد کی چنگاری ہے یعنی
شروفساد کی آگ کو بھڑکاتا ہے۔

جَذَى (ض) جَذِيًا و أَجْذَى -
فلاں غلہ - کسی کو کسی شے سے
روکنا۔

تَجَاذَى - تجاذيًا - کھسک جانا۔



الْجَذَى وَالْجَذِيَّةُ - مِنَ الشَّجَرَةِ
ورخت کی جڑ۔

جَبَرٌ - دَن، جَبْرًا وَجَبْرًا -

کھینچنا، گھسیٹنا۔ مجبور بنانا۔ ہانکنا۔

جَبْرُ الْإِبْلِ - اونٹ کو آہستہ

ہانکنا۔

الْكَلِمَةُ - کلمہ کو جبر کی حرکت دینا۔

عَلَى نَفْسِهِ جَرِيدَةً - جرم کرنا۔

گناہ کا مرتکب ہونا۔

جَبَرَسَ - بہ - زور سے کھینچنا، جھٹکا

مارنا۔

جَبَسَتْ - رُسَتْ - کسی کو اس کی مرضی

پر چھوڑ دینا۔ ٹال مٹول کرنا۔

کھا جاتا ہے۔ "جَبَسَتْ الدَّيْنُ"

اس نے ادائیگی قرض میں ٹال مٹول

کی۔

انْجَبَرَ - کھینچ جانا، گھسیٹا جانا۔

جَبَرٌ وَاجْتَرٌ - البعير - اونٹ کا

جگال کرنا۔

الفصیل - چھوٹے بچے کی زبان چرنا

کہ وہ دودھ نہ پی سکے۔

لِسَانَهُ - بولنے سے روکنا۔ زبان

بند کرنا۔

أَجَبَتْهُ سُنَّةٌ - کسی کو اس کی مرضی

پر چھوڑ دینا۔

أَجَبَتْهُ الرَّمْحُ - نیزہ کو زخم میں

چھوڑ دینا۔

أَجَبَهُ الدَّيْنُ - قرض میں مہلت

دینا۔

اجْتَرَّ وَاجْتَرَسَ - الشَّيْءُ - کھینچنا

استجَرَّ - الشَّيْءُ - کھینچنا۔

الْمَالُ - مال تھوڑا تھوڑا لینا۔

لِفُلَانٍ - کسی کا مطیع و فرمانبردار

ہونا۔

الْجَوْرُ - مَص - اور اسی سے ہے۔ کان

ذَلِكَ عَامٌ كَذَا وَهَلُمَّ

جَبْرًا إِلَى الْيَوْمِ - یہ فلاں

سال میں تھا اور آج تک ایسا ہی

ہے۔ گڑھا۔

جَبْرُ الْجَبَلِ - دامن کوہ۔۔ جَبْرٌ

وغيره کا بھٹ۔ ایک قسم کا اعراب

نواہ حرکت کی شکل میں ہو۔ یا

حرف کی صورت میں۔

الْجَوْرَةُ - کھینچنے کا طریق۔ خانہ بدوش

لوگ۔

وَالْجَوْرَةُ - جگالی۔

الْجَوْرَةُ - جَرَّ کا اسم مرۃ۔ مٹی کا گھڑا۔

ج - جَبَرٌ وَجَبَرَسَ - بھول

میں پکائی ہوئی روٹی۔ بائی۔

الْجَوْرَةُ - غلبہ کرنے کے لیے سوراخ

والا برتن۔ ہرن پکڑنے کے لیے

نکڑی کا پھندا۔ ج - جَبَرٌ -

کھا جاتا ہے۔ فعلت ذلک

مِنْ (جَوْرًا) وَجَوْرًا لَكَ وَ

جَوْرًا لَكَ وَجَوْرًا لَكَ) یہ میں

نے تمھاری وجہ سے کیا۔

الْجَوْرَةُ - ایک قسم کی مچھلی جس کو بام

کتنے ہیں۔

الْجَوْرَةُ وَالْجَوْرَةُ - پرند کا

پوٹا۔

الْجَوْرُوسُ - پانی بننے کی جگہ۔

سیلاب سے پیدا شدہ نالہ۔ یا

چھوٹی ندی۔

فِي اصطلاح المولدین - ایک

چھوٹی مندوچی جو کھینچ کر کھلے۔

بُئْرٌ جَرُوسٌ - گہرا کنواں۔

فَرَسٌ جَرُوسٌ - قابو میں نہ آنے

والا گھوڑا۔

امْرَأَةٌ جَرُوسَةٌ - چلنے سے اپاہج

عورت۔

الْجَوْرَةُ - گناہ۔ کتنے ہیں۔ فعلت

ذَلِكَ مِنْ جَوْبِكَ - یعنی

تمھاری وجہ سے میں نے یہ کیا۔

الْجَوْرَةُ - بہت کھینچنے والا۔ کھار

گھڑا بنانے والا یا کھینچنے والا۔

جَبَشَ الْجَوْرَةُ - بہت بڑا لشکر

عام لوگ جَبَسَ - چھوٹی مندوچی

کو کتنے ہیں جو کھینچنے سے کھلتی ہے

الْجَوْرَةُ - ایک زرد رنگ کا بچھو

جو اپنی دم کو گھسیٹ کر چلتا ہے۔

الْأَجْرَانُ - انس و جن۔

الْمَجْرُ - پانی بننے کی جگہ۔ بشمیر۔

الْمَجْرَةُ - کھکشاں۔ عام لوگ اس

کو دسب التبانہ کہتے ہیں۔

جَرُوسٌ - دَكْ، جَرَاةٌ وَجَرَاةٌ

وَجَرَاةٌ وَجَرَاةٌ -

علیہ۔ دلیر ہونا۔ جرأت کرنا۔

صِفَتٌ (جَوْرِيٌّ) ج - أَجْرَاءُ

وَأَجْرِيَاءُ -

جَوْرًا - تجویشا۔ جرأت دلانا۔

دلیر بنانا۔

اجْتَرَاءٌ - جری اور دلیر ہونا۔

اسْتَجْرَأَ - بناوٹی دلیر بننا۔ بشکف

دلیری دکھانا۔

الْجَوْرَةُ - درندوں کے شکار کرنے

کا مکان۔

ج - الْجَوْرِي -

الْجَوْرَةُ - پوٹا، حلق۔

جَوْرَب - (س) جَرَبًا - کھلی والا

ہونا۔

صِفَتٌ (جَوْرَبٌ وَجَرَبَانٌ وَ

أَجَوْرَبٌ) ج - جَرَابٌ وَ

جَرَبِيٌّ وَ أَجَارِبٌ - وَ

جَوْرَبٌ -

جَوْرَبُ السَّيْفِ - تلوار کا زنگ آلود

ہوتا۔
جَرْبَہ۔ تجزیہ و تجزیہ۔ آزمانا
تجزیہ کرنا۔ امتحان لینا۔
أَجْرَبَ القَوْمُ۔ قوم کے
اونٹوں میں کھلی کی بیماری کا پھیل
جانا۔ ۵۔ کھلی کی بیماری میں مبتلا
کرنا۔
الْجَرْبُ۔ عیب۔ برائی۔ تلوار کا
زنگ۔
الْجَرْبَاءُ۔ اجر ب کا مونٹ۔
قحط زدہ زمین۔ ستاروں بھرا
آسمان۔
الْجَوَابُ۔ تلوار کا میان۔ چمڑے کا
برتن۔ کونیں کا جوف۔ نصیبتیں کی
تھیلی۔ ج۔ اَجْوِبَہ و جُرْبُ
و جُرْبُ۔
الْجَوَابُ۔ خالی کشتی۔
الْجَرْبَةُ۔ سخت و تند آدمیوں، یا
جانوروں کا گروہ۔ کھاؤ اور نکلتے
اہل و عیال۔
الجِرْ پِیَاء۔ شمالی ہوا یا اس کی
ٹھنڈ۔
الْجَرَبَانُ و الْجُرَبَانُ۔
من السیف۔ میان۔ پرتلہ
دھار۔
من القمیص۔ گریبان۔
الْمُجْرَبُ۔ آزمودہ۔ امتحان یا
ہوا۔
دَرَاهِمُ مُجْرَبَةٍ۔ کھرے درہم
الْجَوَسَبُ۔ پائٹابہ (فارسیہ)،
جر جواسر ب و جواسر بۃ۔
جَوَسَبَہ براہیں پہننا۔
تجوسر ب۔ جراب یا پائٹابہ پہننا۔
الْجَرِیْثُ۔ ایک قسم کی پھل۔
تَجَوَّثَمَ و اَجَوَّثَمَ۔ اوپر سے

نیچے گر کر سڑک جانا اور کانپنے
لگنا۔
اجونشم۔ اپنی جگہ جم جانا۔
الْجُرْثُومُ و الْجَرْثُومَةُ۔
من الشئ۔ جڑ۔ درخت کی جڑیں
جمع شدہ مٹی۔ ج۔ جَرَاثِیْمَہ۔
جُرْثُومَةُ الثَّمَلِ۔ چیونٹیوں کی
بستی اور موجودہ زبان میں جسرانیم۔
(GERMS) کو کہتے ہیں۔
جَرَجَرَس (س) جَرَجَا۔ الخاتمہ فی
اصبعہ۔ انگلی کی انگلی میں
ڈھیلا ہونا۔ صفت (جَوَج)۔
الْوَجَلُ کسی کا سخت زمین میں
چلنا۔
الْجُرْجَلَةُ۔ خرچی بنا ہٹیل۔ توشہ
دان۔ ج۔ جُورِج۔
جَوَجَر۔ الجمل۔ اونٹ کا
بلبلانا۔
الماء فی حلقہ۔ پانی کا حلق
میں گڑ گڑانا۔
تَجَرَجَر۔ الماء۔ پانی کو غٹ
غٹ پینا۔
الْجَرَجَرُ۔ غلہ کے گاہنے کا
آہنی آلہ یا مشین۔ حلق۔ ج۔
جَوَاچِر۔
الْجَرَجِر۔ وَالْجَرَجِرُ۔ لوبیا۔ چنا
الْجَرَجَا سَاۃ۔ پکی۔
الْجَرَجِیْرُ۔ پانی میں پیدا ہونے والی
اور کھائی جانے والی ایک ترکاری
جَرْحَہ (د) جَرْحًا۔ زخمی کرنا۔
بلسانہ۔ کسی کا عیب و نقص
بیان کرنا۔ کہتے ہیں جرح
الشہادۃ۔ اس نے گواہی کو
باطل کر دیا۔
الرجل۔ کمانا۔

صفت (جارج) اور اسی سے ہے۔
مَالِہ جَارِحَہ۔ اس کا کوئی
کمانے والا نہیں
جَرِح (س) جَرْحًا۔ زخمی ہونا۔
جَرْحَہ۔ بہت زخمی کرنا۔
جرح الشہادۃ۔ شہادت کو
روکیا۔
اَجْتَرَحَ۔ الشئ۔ کسی چیز کو کمانا۔
الْاِثْمَ۔ گناہ کا ارتکاب کرنا۔
اِسْتَجَرَحَ۔ الشئ۔ چیز کا فاسد
ہونا۔
الْجُرْحُ۔ زخم۔ ج۔ جُرُوح و
اَجْرَاح۔
الْجُرْحَةُ۔ وہ چیز جس سے ختم کی
شہادت اور اس کی دلیل کو باطل
کیا جائے۔
الْجَرَا حَةُ۔ زخم۔ ج۔ جَرَّاح و
جَرَّاحَات۔ جراح کا پیشہ
گناہ۔
الْجَرَّاح۔ وَالْجَرَّاحِی۔ زخموں
کا علاج کرنے والا۔ زخموں کو چیرنے
پھاڑنے والا۔ سرجن۔
الْجَارِحَةُ۔ جارج کا مونٹ۔ پھسری۔
شکاری۔ درندہ یا پرندہ یا کتا۔
عضوانسانی۔ خصوصاً ہاتھ۔ ج۔
جَوَّارِح۔ جَوَّارِحُ النِّہَاسِ
کنایہ از مصائب روز اور اسی
سے ہے۔ نعوذ باللہ من
طَوَارِقِ اللَّیْلِ و جَوَّارِحِ
النِّہَاسِ۔ یعنی ہم دن رات کے
مصائب سے اللہ کے ذریعے پناہ
مانگتے ہیں۔
الْجَوَّارِحُ مِنَ الطَّیْرِ۔ شکاری
پرندے۔
الْمَجْرُوحُ۔ مَجَّارِح و (الْجَرِیج)

ج۔ جَوَّجَی۔ زخمی۔

جَرَدَن، جَرَدًا و جَرَدَ۔

العود۔ لکڑی پھیلنا۔

الجلد۔ کھال سے بال اتارنا۔

السيف۔ تلوار کو ننگی کرنا۔

القحط الارض۔ خشک سالی کا

زمین کو چٹیل میدان بنا دینا۔

جَرَدَہ من ثوبہ و جَرَدَہ

ثوبہ۔ کسی کو کپڑوں سے ننگا

کرنا۔

جَرَدَ اَلکتابۃ۔ اعراب نہ لگانا۔

جواد الجریڈۃ۔ پھینک دینا۔

جَرَدَ (س) جَرَدًا۔ چٹیل ہونا۔

المکان۔ کسی جگہ ٹڈی کا گرنا۔

الفرس۔ گھوڑے کا چھوٹے بالوں

والا ہونا۔

جَرَدَت۔ الارض۔ کسی جگہ کی کھیتی یا

سبزی کو ٹڈی کا چر جانا۔

تَجَرَد۔ ننگا ہونا۔

الامر۔ کسی کام کے لیے فارغ ہو کر

اس میں جد و جہد کرنا۔

الفرس۔ گھوڑ دوڑ میں گھوڑے کا

آگے نکل جانا۔

اَنْجَرَد۔ ننگا ہونا۔

بنا السیر۔ کسی کی طرف متوجہ

ہوئے بغیر چلتے رہنا۔

الثوب۔ کپڑے کا گھس کر بوسیدہ

ہونا۔

اَجْتَرَد۔ القطن۔ روٹی دھنا۔

الجرد۔ مص۔ مکان جَرَدٌ۔

بے سبزہ والی جگہ۔

الثوب الجَرَد۔ پرانا، اور

بوسیدہ کپڑا ڈھال، بچا ہوا مال۔

ج۔ جَرَد۔

الجَرَد۔ والجَرَد۔ نباتات سے

خالی زمین۔ بال کا چھوٹا ہونا۔

الجَرَدَۃ۔ ننگاپن۔ عربی۔

برہنگی۔

الجَرَدَۃ۔ پھٹا پرانا کپڑا۔

الجَرَاد۔ ٹڈی۔ واحد (جَرَادَۃ)

الجَرَادَۃ۔ لکڑی کی پھیلن۔

الجَریدۃ۔ پتوں سے صاف کی

ہوئی کھجور کی ٹہنی۔

واحد (جَریدۃ)

الجَریدۃ۔ سواروں کا رسالہ۔

باقی ماندہ مال۔ جبر۔ اخبار۔ ج۔

جَوَّارِد۔

الْأَجْرَد۔ بغیر نباتات والی زمین۔

بے بالوں والا۔ چھوٹے بالوں والا۔

مونث جَرَدَاء۔ ج۔ جَرَد۔

الْأَجْرَد من الخیل۔ گھوڑ دوڑ

میں آگے رہنے والا گھوڑا۔

لسن الجَرَد۔ بے جھاگ والا

دودھ۔

صخرۃ جَرَدَاء۔ پکٹی چٹان۔

خمرة جَرَدَاء۔ شراب صافی۔

والجَرَد۔ سواروں کا وہ رسالہ

جس میں پیدل نہ ہوں۔

کہتے ہیں: "مَا رَأَيْتَہ منذ

اجودین"۔ میں نے اس کو

مکمل دو دن یا دو مہینے یا دو سال

سے نہیں دیکھا۔

وشھر الجرد۔ پورا مہینہ۔

سنة (جارود و جارودة)

سخت قحط سالی کا سال۔

التجويدۃ۔ فوج کا دستہ۔

المَجْرَد۔ دانتوں کو صاف کرنے کا

برش۔ روٹی دھنے کا آلہ۔

الجَرَاد۔ قلعی گر۔ المُنْجَرَد۔

بمعنی آجَرَد۔

الجَرْدَق والجَرْدَقۃ۔ روٹی۔

ج۔ جَرَادِق۔

جَرَدَن، جَرَدًا۔ الجرح۔

زخم کا سورج کر گلی دار ہو جانا۔

جَرَدَ۔ الشجرۃ۔ درخت کی کانٹیں

پھیلنا۔

أَجْرَدَۃ۔ نکالنا۔ علیحدہ کرنا۔

۵۔ الیہ۔ مجبور کرنا۔

الجَرَد۔ جانور کی کوچ کا ورم۔

الجَرَد۔ ایک قسم کا چوہا۔ ج۔

جَرْدَان۔ کہتے ہیں تفرقت

جَرْدَان بیتہ۔ اس کے

گھریں چوسے قلابازی کھا رہے ہیں

یعنی اس کے گھریں کھانے پینے کو

کچھ نہیں۔

ارض جَرَدَۃ۔ بہت چوہوں

والی زمین۔

المَجْرَد۔ آزمودہ کار۔

جَرَسَن (ن) جَرَسَنًا۔ کاٹنا۔ جَرَد

سے اکیڑنا۔

۵۔ الزمان۔ ہلاک کرنا۔

۵۔ بالشتم۔ گالی دینا۔

کہتے ہیں جَرَسَنًا عَلَی الْمَاکِدَۃ

جو کچھ دسترخوان پر تھا، وہ سب

چٹ کر گیا۔

جَرَسَن (ن) جَرَسَنَۃ۔ ایسا کھاؤ

اور پیو ہونا کہ دسترخوان کو صاف

کر کے اٹھ۔

جَرَسَنَات (س) جَرَسَنًا۔

الارض۔ زمین کا بخر ہونا۔

صفت (جَارَسَنَۃ) ج۔

جَوَّارِسَن۔

جَارَدَۃ جَرَادًا و جَارَسَنَۃ۔ گالی

کے مشابہ خوش طبعی کرنا۔

أَجْرَسَن۔ البَعِیْر۔ اونٹ کا بلا ہونا۔

ج

المكان - کسی جگہ کا قحط زدہ ہونا۔
 صفت (مَجْرَسًا)
 تَجَارَسًا - القوم - آپس میں ایک
 دوسرے کو گالی دینا۔
 الارض (الجُرس) والجرس
 والجرس - نباتات نہ اگانے
 والی زمین۔ گھاس چرئی ہوئی زمین۔
 ج - أجراس -
 کہا جاتا ہے۔ ارض جرس و
 ارض اجراس واسر صون
 أجراس۔
 الجرس - عورتوں کا لباس۔
 الجرس - لوہے یا چاندی کا ستون
 یا چھتری۔ ج - أجراس و
 جرس - کہا جاتا ہے۔ طوت
 الحیة أجراس ہا - سانپ
 کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔
 و طوی فلان اجراس فلاں
 آدمی نے سستی کی۔
 الجرس - قحط کا سال۔ جسم انسان کا
 سینہ۔ اونٹ کی پیٹھ کا گوشت۔
 الجرس - بلاکت۔ کہتے ہیں۔
 رماہ اللہ بجرس - اللہ
 اس کو ہلاک کرے۔
 الجرس - گٹھا۔ بنڈل۔ ج -
 جرس۔
 الجراس - تیز کاٹنے والی تلوار۔
 المجرس - من الامکنہ - وہ جگہ
 جس کی گھاس کاٹ لی گئی ہو۔
 جرس (رض) جرسا - بولنا۔
 آواز سننا۔
 الکلام - راگ سے پڑھنا۔
 الشیء - کسی شے کو زبان سے
 چاٹنا۔
 آجرس - الطائر - پرندہ کی

اڑان میں سرسراہٹ کی آواز
 سنائی دینا۔
 الحادی - حدی لگانا۔
 الجرس - گھنٹی بجانا۔
 (— وانجرس)
 العلی - زیور کی جھنکار نکالنا۔
 بجنا۔
 جرسہ - الدھو - تجربہ کار بنانا۔
 جرس بھم - بدنام کرنا۔
 تجرس - بولنا۔ گفتگو کرنا۔ نغمہ سرائی
 کرنا۔
 اجرس - المال - مال کمانا۔
 الجرس والجرس - آواز۔
 پست آواز۔
 الجرس - اصل۔
 کہتے ہیں ہو من خیر جوس۔
 وہ شریف الاصل ہے۔ ج -
 آجواس۔
 الجرس - گھنٹی۔ گھڑیاں۔ ج -
 اجراس۔
 والجرس - کسی شے کا حصہ۔
 کہتے ہیں۔ معنی جرس من
 اللیل - رات کا ایک حصہ گذر
 گیا۔
 الجارسہ - گھاس کھانے والا کھڑا۔
 ج - جواس۔
 الجواس - شد کی مکھیاں۔
 الجرسہ - آزمودہ کاری۔
 المجرس - تجربہ کار۔ کہتے ہیں۔
 ناقۃ مجرسہ - سدھائی ہوئی
 اونٹنی۔
 جرس دن، جرسا۔
 الحب والقحح - فائدہ دار
 گیہوں دلنا۔
 (— وجرس الواس) - سرکھلا کر

اس کی بھوسی نکالنا۔
 اجرش - یعنایہ - اپنے بال بچوں
 کے لیے کمانا۔
 الشیء - کسی شے کو اپک لینا۔
 الجاروش والجاروشہ - غلہ
 دلنے کی ہاتھ کی چکی۔ ج -
 جواسیش۔
 الجرش - مص - سانپ کے کینچی
 سے نکلنے وقت کی آواز۔
 — والجرش والجرش
 والجرش۔
 من اللیل - رات کا ایک
 حصہ۔
 کہتے ہیں۔ معنی جرش من
 اللیل - رات کا ایک حصہ گذر
 گیا۔ ج - أجراس وجروش۔
 جراسہ - الحب - دلا ہوا دانہ۔
 کنگھی کرنے سے سر سے نکلی ہوئی بھوسی۔
 الجوارش - جوارش (دوا)
 الجرش والمجروش - دلا ہوا غلہ۔
 جرض - (س) جرضنا بریقہ - غم
 درج کے باعث بدقت تھوک
 نکالنا۔
 ریقہ - تھوک ایک دم نکل لینا۔
 کہتے ہیں۔ فلان یجرض عليك
 ریقہ غیظا - یعنی فلان
 شخص تم پر مارے غصے کے دانت
 پیتا ہے۔
 جرسہ (ن) جرسا - کلا گھونٹنا۔
 کہا جاتا ہے ہو یجرض بنفسہ
 یعنی وہ قریب الموت ہے۔
 آجرسہ - بریقہ - اچھو گنے کا
 سبب ٹھینا۔ پھند لگنے کا سبب بننا۔
 الجرض والجویض - پھندا لگانے
 والا تھوک اور اسی سے یہ مثل ہے۔





حال الجریض دون
القویض۔ غم اور رنج۔ شعر خوانی
اور خوشی کے درمیان حائل ہو گیا۔
الجریض۔ غم زدہ۔
ج۔ جرضی۔ اور کسا جاتا ہے
أَفَلَتَ فُلَانٌ جَرِيضًا۔ یعنی
فلاں مرنے والا ہے۔
الْجَرَّاحُ۔ وَالْجَرَّاحُ وَالْجَرَّاحُ
بہت تلکین۔
الْجُرْضَمُ وَالْجَوَاضِمُ وَالْجُرْضَمُ
بہت کھانے والا۔ پیٹو۔
نَاقَةُ (جُرْضَمٌ وَجُرْضَمٌ)
موٹی اور فربہ اونٹنی۔
جَرَّعَ (ف) جَرَّعًا۔ وَجَرَّعَ
(س) جَرَّعًا۔ وَاجْتَرَّعَ
اجتراعاً۔
الماء۔ پانی یکبارگی پی جانا۔
جَرَّعَهُ۔ الماء۔ پانی گھونٹ
گھونٹ کر کے پلانا۔
تَجَرَّعَ۔ الماء۔ پانی تھوڑا تھوڑا
پینا۔
الغیظ۔ غصہ پینا۔
اجدعت الناقة۔ اونٹنی کا
کم دودھ والی ہونا۔ صفت۔
(مُجَرَّع) ج۔ مجارِع
وَمَجَارِيعُ۔
الْجُرْعَةُ۔ وَالْجُرْعَةُ وَالْجُرْعَةُ
گھونٹ۔
الْجَوْعَةُ۔ ج۔ جَوْعٌ وَجَوْعَانٌ
وَالْجَوْعَاءُ۔
ج۔ جَوْعَادَاتٌ وَ(الْأَجْرَعُ)
ج۔ أَجَارِعُ۔ ریت کا وہ ہموار
میدان جس پر کوئی سبزہ اور روئیدگی
نہ ہو۔
جَوَفٌ (ن) جَوْفًا وَجَوَفٌ۔

وَجَوَفٌ وَاجْتَوَفَ۔
الشیء۔ پوری چیز یا اس کا اکثر
حصہ لے جانا۔
الطین۔ پھاؤرہ یا سیلچہ سے مٹی
کھودنا یا کھرچنا۔
أَجَوَفٌ۔ المکان۔ کسی جگہ کا
سیلاب زدہ ہونا۔
الْجَوَفُ۔ مص۔ بہت مال۔ مثلاً
مویشتی۔ سونا۔ چاندی۔ وغیرہ۔
سرسبزی۔ اونٹ کی ران یا اس کے
بدن پر لگا ہوا داغ۔
الْجَوَفُ۔ مص۔ ج۔ جوفہ و
(الْجَوَفُ) ج۔ أَجَوَفٌ۔
نہر کا کنارہ جس کو پانی نے ڈھا کر
کھوکھلا کر دیا ہو۔ اور اسی سے ہے
یہ قول "فُلَانٌ يَبْنِي عَلَى جَوَفِ"
ہاں لا یدرسی ما لیل
من نہاسا۔ یعنی فلاں شخص
دریا کے ڈھینے والے کنارہ پر مکان
بناتا ہے اور اس کو دن رات میں
تیز نہیں۔
الْجَوَافُ۔ مِنَ السَّيْلِ۔ ہر چیز
کو بہا لے جانے والا سیلاب۔
کتے ہیں۔ رجلٌ جَوَافٌ۔ تمام
کھانا ہڑپ کر جانے والا آدمی۔
(— وَالْجَوَافُ) ایک قسم
کا پیمانہ۔
الْجَارِفُ۔ فا۔ طاعون۔ ہمہ گیر
تباہی مچانے والی موت۔
الْجَارُوفُ۔ بہت کھانے والا۔
پیٹو۔ تیزی سے بہا لے جانے والا۔
منخوس۔ نامبارک۔ صفت۔
جاروفہ۔
الْجَوَافُ۔ بہت تیزی سے بہا لے
جانے والا۔

الْمُجَوَّفُ۔ وَالْمُجَوَّفُ۔ وہ
شخص جس کو انقلاب زمانہ نے مال
و متاع سے تہی دست کر دیا ہو۔
الْمُجَوَّفُ وَالْمُجَوَّفَةُ۔ جھاڑو۔
بیلچہ۔ پھاؤرہ۔
جَوَفَةٌ۔ پچھاڑنا۔
الشیء۔ حرص سے کھانا۔
جَوَلٌ۔ جَوَلًا۔ المکان۔ جگہ کا
سخت و کمرخت ہونا۔
الْجَوَلُ۔ کھوری۔ پتھریلی زمین۔
ج۔ أَجْوَالُ۔
الْجَوَدُلُ۔ پتھریلی زمین۔ ج۔
جَوَادُلُ۔
الْجَوِّيَّالُ۔ وَالْجَوِّيَّالَةُ۔ شراب
یا اس کا رنگ۔
جَدَمٌ۔ (ض) جرمًا۔
الشیء۔ کاٹنا۔ پورا کرنا۔
النَّاقَةُ۔ اونٹنی کی اون کترنا۔
(— جَرْمًا وَجَوَامًا وَ
جَوَامًا)
النخل۔ کھجوریں کاٹنا۔
جَرَمَ (ض) جَرْمًا وَاجْتَرَمَ۔
لاہلہ۔ اپنے اہل و عیال کے
لیے کمانا۔
جَرَمَ۔ (ض) جَرِيمَةً وَاجْتَرَمَ
وَاجْتَرَمَ۔
المیہ وعلیہ۔ گناہ کرنا۔
جَرَمَ (ض) جَرْمًا۔ دھت کی لگی
ہوئی کھجوریں کھانا۔
لَوْنُهُ۔ رنگ کا صاف ہونا۔
جَرَمَ۔ (ك) جَرِيمَةً۔ بڑے جرم
والا ہونا۔
جَرَمَهُ۔ کاٹنا۔ جَرَمَهُ وَتَجَرَّمَ
علیہ۔ کسی کو جرم کے ساتھ
مستہم کرنا۔

تجتم الزمان او الشتاء۔
 زمانہ یا جاڑے کا گزر جانا۔
 کتے ہیں عام مجرم۔ پورا سال
 الجرم۔ مص (—) والجرم
 گناہ۔ قصور۔ ج۔ جرم و
 آجرام۔
 اور کہا جاتا ہے لا جرم ولا
 جرم۔ یعنی ضروری۔ یقینی۔ ناگزیر
 سبھی قسم کے معنی دیتا ہے۔
 اور کتے ہیں لا جرم لا فعلت
 قسم خدا کی میں ایسا کروں گا۔
 الجرم۔ مص۔ چھوٹی کشتی۔ ڈونگا۔
 سخت گرم ملک۔
 ج۔ جرم۔ الجرم۔ گرم
 ملک۔ اس کے مقابلہ الصرود
 ہے۔ یعنی سرد ملک۔ پہاڑی
 سرد جگہیں۔
 الجرم۔ جسم۔ رنگ۔ ستارہ۔
 آسمان۔ ج۔ آجرام و جرم
 و جرم۔
 الجرام۔ والجرام۔ والجریم
 خشک کھجور۔
 الجریم۔ گناہگار۔ بڑے جسم والا۔
 مونث۔ جریمہ۔ ج۔
 جرم۔
 الجریمہ۔ جسم۔ گناہ۔ قصور
 گھٹلی۔
 شجرۃ جریمہ۔ گناہ درخت
 جرم مزاج و مزہ۔ الرجل بکڑنا
 سٹنا۔ لوثنا۔ بھاگنا۔ جواب میں
 غلطی کرنا۔
 الجرامیز۔ من الحيوان۔
 جانور کی ٹانگیں۔ کتے ہیں۔
 "فم الشور جرمیزہ"۔ بیل
 نے اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں۔

اخذہ بجرامیزہ۔ اس نے
 سب کچھ لے لیا۔
 الجرموق۔ موزہ۔ بڑا موزہ۔ جو
 پھوٹے موزے پر پہنا جاتا ہے تاکہ
 اس کو دھول اور گرد سے بچائے
 عام لوگ اس کو "کالوش" کتے
 ہیں۔
 جون۔ دن۔ جرون۔ الثوب۔
 کپڑے کا بوسیدہ اور پرانا ہونا۔
 علی الامر۔ کسی کام کا عادی و
 متشاق ہونا۔
 کہا جاتا ہے۔ جرنٹا یدہ۔
 علی الحمل۔ اس کا ہاتھ کام میں
 مشاق ہو گیا۔
 (—) جرنٹا (الحب۔ غلہ
 پیسن۔
 آجون۔ الحب۔ غلہ کھلیان
 میں جمع کرنا۔
 اجتنون۔ کھلیان بنانا۔
 الجارن۔ سانپ کا بچہ۔ بیٹے ہوئے
 نشانات والا راستہ۔
 — من المتاع۔ مستعمل۔ بوسیدہ
 سامان۔
 سقاء جارن۔ سوکھی اور
 سخت چڑے والی مشک۔
 دساع جارنہ۔ نرم زرہ۔
 ج۔ جواسن۔ وحاسنات۔
 کھل۔ ہاون پتھر کا برتن۔
 ج۔ آجون و جون۔ د —
 والجریں۔ ج۔ جون۔
 کھلیان۔ کھجور وغیرہ کے سکھانے
 کی جگہ۔
 الجران۔ من البعیر۔ اونٹ
 کی گردن کے سامنے کا حصہ۔
 ج۔ جون و آجونہ۔

کتے ہیں القی البعیر جرانہ
 اونٹ بیٹھ گیا۔
 والقی فلان علی هذا
 الامر جرانہ۔ یعنی فلان
 شخص اس امر کا خوگر و عادی ہو
 گیا۔
 ضرب السلامہ بجرانہ۔
 اسلام نے اپنے قدم جمائے۔
 ضرب اللیل بجرانہ۔
 رات آگئی۔
 القی علیہ جوانہ۔ اس نے
 اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا۔
 المجون۔ کھلیان۔
 رجل مجون۔ بہت کھانے والا۔
 المجون۔ من السیاط۔ نرم اور
 چکنا کوڑا۔
 جرہد و اجرہد۔
 فی السیر۔ تیز چلنا۔
 الجرہد و الجرہد۔ پست
 چلنے والا۔
 اجروت اجراء۔ الکلبۃ۔
 کتیا کا پلوں والی ہونا۔
 الجرو (بتثلیث الجلیم)
 ہر چھوٹی شے۔ حتی کہ انار اور خرہوزہ
 بھی۔ لیکن عموماً کتے اور شیر کے بچے
 کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ ج۔
 جراء۔ و آجیر۔ جج۔
 آجریہ۔
 الجروۃ۔ (بتثلیث الجلیم)
 جرو۔ کامنٹ۔ کتے ہیں
 "ضرب علی الامر جروۃ"
 اس نے اس کام پر صبر و استقلال
 دکھایا۔
 (ضرب جروۃ عنہ)
 اس نے صبر کر لیا۔

کلبۃ (مُجَرِّدٌ وَمُجَرِّیَّةٌ) پتوں والی کتبیا۔
 جَرِّی (من، جَرِّیًّا و جَرِّیًّا نًا و جَرِّیَّةٌ)۔
 الماء۔ پانی کا بہنا۔
 کتے ہیں۔ سَرِّیع الجَرِّیَّة۔ تیز بہنے والی نہر۔
 الفرس۔ گھوڑے کا دوڑنا۔
 الامر۔ کسی معاملہ کا وقوع پذیر ہونا۔
 الی الشیء۔ کسی چیز کا قصد کرنا ارادہ کرنا۔
 جَرِّی وَّاجَرِّی۔ الماء۔ پانی بہانا۔
 اجرِی لہ الحساب۔ کسی کا حساب رجسٹر میں درج کر لینا۔
 اجرِی علیہ الحساب۔ کسی کے ذمہ کچھ بقایا نکالنا۔
 جَرِّی فَلَانًا۔ کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنا کر بھیجنا۔
 اَجْوِی الامر۔ کام کو جاری اور نافذ کرنا۔
 اجرِی الامر الی فلان۔ کوئی کام کسی کے سپرد کر دینا۔ یا کسی کی طرف منسوب کرنا۔
 اجرِی الی الشیء۔ کسی چیز کا قصد و ارادہ کرنا۔
 اَجْوِی عَلَیہ الرِّزْق۔ کسی کو رزق دینا یا مقرر کرنا۔
 اجرِی القِصَاص۔ قصاص لینا۔
 اجرِی الکلمۃ۔ کلمہ کو منصرف کر دینا۔
 جَارَاہ۔ کسی کے ساتھ چلنا۔
 تَجَاسَّرَ یا سَاحَہ سَاحَہ چلنا کتے ہیں۔ الدَّیْنُ الرَّهْنُ

یَتَجَاسَّرَ یَا۔ قرض اور رہن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی ہر دو ایک ہی طرح کے ہیں۔
 فی الامر۔ کسی کام میں موافقت کرنا۔ کسی معاملہ میں متفق ہونا۔
 استجرِی۔ فَلَانًا۔ کسی سے چلنے کی خواہش کرنا۔ کسی کو وکیل بنانا۔
 الجَرِّی۔ ضامن۔ وکیل۔ مزدور پیغامبر۔ کتے ہیں۔ ہو جَرِّی لہ۔ وہ اس کا ضامن ہے۔ ج اجرِیاء۔
 کہا جاتا ہے۔ من جَرَّاک او من جَرَّاک۔ یعنی تمہاری وجہ سے۔
 الجَرَّایۃ۔ وظیفہ۔ فوجی کا روزینہ۔
 د۔ والجَرَّاء والجَوَّاء۔ شباب و جوانی۔
 کتے ہیں۔ جَاسَرِیَّةٌ بَیِّنَۃ۔ الجَرَّایۃ۔ بھری جوانی والی رطکی۔
 الجَرَّایۃ والجَرَّایۃ۔ وکالت۔
 الاجرِیاء والاجرِیاء۔ طریق کار۔ خلق۔ طبیعت۔
 کہا جاتا ہے۔ جری علی اجرِیاء واجرِیاء۔ وہ اپنی فطرت پر چلا۔
 اجرِی۔ واجرِیت۔ ایک قسم کی مچھلی۔ بام مچھلی۔
 اجرِیۃ۔ پوٹا۔
 الجاری۔ فا۔ نہر جاری۔ وہ نہر جو نہ خشک ہو۔
 الجَاسَرِیۃ۔ مونث۔ الجاری بچی۔ باندی۔ چھوکری۔ سورج۔
 کشتی۔ سانپ۔

ج۔ جاریات وجواری۔
 المَجْرِی۔ پانی بہنے کی جگہ۔ گزرگاہ۔
 ج۔ مَجَارِس۔
 المَاجَرِیَّات۔ حوادث و واقعات۔
 اس کی اصل مَا جَرِّی ہے۔
 کتے ہیں۔ کانت بینہم مضاطرات وماجریات یطول شرَحُہا۔
 جَز۔ (ن) جَزًا و جَزَس و اجْتَز۔
 الصوف او العشب۔
 او النخل۔ اون یا گھاس یا کھجور کا ٹٹا۔ کترنا۔
 جَزَّ وَاَجَزَّ وَاَسْتَجَزَّ۔ الغنم او البُرَّ او النخلۃ۔ کترنے یا کاٹنے کے وقت پر پہنچنا۔
 اَجَزَّ القوم۔ کھجور کا خشک ہونا۔
 اَجَزَّ القوم۔ قوم کی بیڑوں کا بال کترا ہوا یا ان کی کھیتی کا کٹا ہوا ہونا۔
 الجَزَّة۔ کتری ہوئی اون۔
 ج۔ جَزَس و جَزَّ اِز۔
 الجَزَس۔ استعمال میں نہ آئی ہوئی اون۔
 الجَزَّاس و الجَزَّاسۃ۔ کٹنے کے وقت زمین پر گری ہوئی اون۔
 جَزَّاسٌ مِنَ اللیل۔ رات کا ایک حصہ۔
 الجَزَّاس و الجَزَّاس۔ فصل کی کٹائی کاٹنے یا کترنے کے وقت۔
 الجَزَّوَسۃ۔ من الغنم۔ وہ بیڑ جس کی اون کتری جائے۔
 ج۔ جَزَس۔
 الجَزِیز۔ کترا ہوا۔ کاٹا ہوا۔
 الجَزِیۃ۔ اون کا کچھا۔
 الجَزَّاس۔ کترنے یا کاٹنے والا۔
 المَجَز۔ کترنے کا آلہ۔ قینچی۔



جَزَأٌ - (ن) جَزَعًا - الشئ - چیز کو مختلف اجزا میں تقسیم کرنا۔ ایک جزو لینا۔
 (و) جَزَأٌ وَاجْتَزَأٌ - بالشئ - کسی چیز پر اکتفا کرنا۔
 جَزَأٌ تَجَزَعَتْ وَتَجَزِيًا - الشئ - تقسیم کرنا۔
 جَزَأُهُ وَاجْزَأُهُ - بالشئ - تسلی دینا۔ قانع بنانا۔ کہا جاتا ہے۔
 جَزَأُ الْمَاشِيَةِ بِالرُّطْبِ عَنِ الْمَاءِ - جانور کو تر گھاس چرا کر اس کو پانی سے تسلی دے دی۔
 أَجْزَأُ عَنْهُ - مستغنی ہونا۔ بے پروا ہونا۔
 تَجَزَأٌ - تقسیم ہونا۔
 الْجُزْءُ - مص - بعض - کفایت - کہتے ہیں - "لَكَ فِي هَذَا غِنَاءٌ وَجُزْءٌ" - تمہارے لیے بس یہی کافی ہے۔
 الْجُزْءُ - چیز کا ایک حصہ۔
 ج - أَجْزَاءٌ - اور اسی معنی میں جزء و جِزَاءٌ بھی ہے۔
 الْجُزْئِيُّ - جز کی طرف منسوب - کلی کی ضد۔
 الْجُزْئِيَّةُ - کلیت کے مخالف۔
 ج - جُزْئِيَّاتٌ -
 الْجُزْأَةُ - چھری ستال وغیرہ کا دستہ۔
 الْمَجْزَأُ وَالْمَجْزَأَةُ وَالْمَجْزَأُ وَالْمَجْزَأَةُ - چیز کا کافی ہونے والا حصہ۔ بقدر کفایت حصہ۔
 کہا جاتا ہے۔ أَجْزَأُ مَجْزَأٌ - فُلَانٌ وَمُجْزَاهُ وَمَجْزَأَتُهُ وَمُجْزَاتُهُ - وہ فُلَان کا قائم مقام و نائب ہوا۔

الْجُزْئِيُّ وَالْمَجْزِيُّ - عَنِ الطَّعَامِ - وہ کھانا جو سیر و آسودہ کرے۔
 الْجُزْأَسِيُّ - وہ نیل گائے، جو تر گھاس کھا کر بہت حد تک پانی سے بے نیاز ہو جائے۔
 جَزَحٌ (ف) جَزَحًا - لَهُ مِنَ الْمَالِ - کسی کو مال کا کچھ حصہ دینا۔
 الرَّجُلُ - آدمی کا اپنے کام کے لیے جانا۔
 الْظُّبَاءُ - ہرنیوں کا جھاڑی میں داخل ہونا۔
 الْجَزْحُ - مص - عطیہ۔
 الْجُزْدَانُ - جزوان - بستہ - کیس - بھیل۔
 جَزَسَ (ن) جَزَسًا وَجَزَسًا وَجَزَأَسًا وَجَزَأَسًا - اجترس - الشَّاعَةُ - بکری ذبح کرنا۔
 جُزَسَ النَّخْلَةُ جُزَسًا - کھجور کو کاٹنا۔
 جَزَسَ دَن (ض) جَزَسًا - سمندر کا پیچھے ہٹنا۔
 الْمَاءُ - پانی کا خشک یا کم ہونا۔
 أَجْزَسَ - النَّخْلُ - کھجور کا کاٹنے کے وقت کے قریب پہنچنا۔
 الشَّيْخُ - بوڑھے کے مرنے کا وقت قریب آ پہنچنا۔
 فَلَانًا - کسی کو ذبح کرنے کے لیے بکری دینا۔
 تَجَاسَرَ - آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینا۔
 تَجَزَّرُوهُمْ وَاجْتَزَّرُوهُمْ فِي الْقِتَالِ - میدان کارزار میں دشمنوں کو درندوں کی غذا بنانا۔

الْجُزْسُ - مص - ذبح کرنا۔ بھٹانا۔
 الْجُزْسُ - وہ جانور جس کا ذبح کرنا جائز ہو۔ واحد۔ جُزْسَةٌ - ذبح کی ہوئی چیز۔
 جُزْسُ السَّبَاعِ - وہ گوشت جس کو درندے کھائیں۔
 کہتے ہیں تد کو ہمد جُزْسًا - یعنی ان کو بیابانی میں قتل کیا۔
 الْجُزْسُ - وہ جگہ جہاں سے مدد جوار لوٹے۔
 وَالْجُزْسُ - گاجر۔
 الْجُزَّاسُ وَالْجُزِيْدُ - ذبح کرنے والا۔
 الْجُزُوسُ - ذبح کے لیے اونٹنی یا بکری ج - جُزْسٌ وَجُزُوسَاتٌ وَجُزَائِرٌ -
 الْجُزَّاسَةُ - ذبح کیے ہوئے جانور کے اطراف - ہاتھ پاؤں سر - ان کو جُزَّاسَةً - اس لیے کہتے ہیں کہ ذبح کرنے والا ان کو ذبح کی اجرت میں لیتا ہے۔ ہر وہ شے جو ذبح کرنے والا ذبح کرنے کی اجرت میں لے لے۔
 الْجُزَّاسَةُ - ذبح کرنے کا پیشہ۔
 الْجُزِيْدُ - ج - جُزَائِرٌ وَجُزْسٌ وَجُزْسٌ - وہ قطع زمین جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ دو آبہ کے مالک۔
 جُزِيْدَةُ الْعَرَبِ - عرب کا ملک جو جزیرہ کے مشابہ ہے۔
 الْجُزَائِرُ - شمالی افریقہ میں ایک ملک۔
 الْجُزَائِرُ الْخَالِدَاتُ - بحر محیط (اطلانک) میں بجانب غرب چھ جزیرے۔



المَجْزُوس - بوچڑخانہ۔ جانور ذبح کرنے کی جگہ۔ عام لوگ اس کو مُسَدِّخ کہتے ہیں۔

جَزَع - (ف) جَزَعًا۔ الوادی - وادی کو عرض میں طے کرنا۔

لہ من مالہ جَزَعَةً۔ اپنے مال میں سے کسی کو ایک حصہ دینا۔ جَزَع - (س) جَزَعًا و جَزُوْعًا۔ منہ۔ کسی چیز پر صبر نہ کر کے غم و تکدر کا اظہار کرنا۔

عَلِيْہ - ڈرنا۔ خوف کرنا۔ یا شَفَقَت و مہربانی کرنا۔ صفت دَجَزَع و جَزَائِع و جَزُوْع و جَزَائِع و جَزُوْع۔

جَزَعًا۔ کسی کا خوف و ہراس دور کرنا۔ تسلی دینا۔ بے صبری زائل کرنا۔

جَزَع الشَّيْء - کسی شے کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الحوض - حوض کا پانی تھوڑا ہو جانا۔

اَجْزَعَہ - گھبراہٹ میں ڈالنا۔

اَجْزَع مِنْہ جَزَعَةً۔ اس نے اس کا کچھ حصہ باقی چھوڑ دیا۔

اَنْجَزَعَ و تَجَزَعَ - کٹ جانا۔ ٹوٹ جانا۔

اَجْزَعہ - کاٹنا۔ توڑنا۔

الجَزَائِع - فا - دو چیزوں کے درمیان عرض میں رکھی ہوئی لکڑی جس پر کوئی چیز رکھیں۔

الجَزُوْع - مص - سفید و سیاہ مہرہ - واحد - جَزَعَةً۔

الجَزَع - لوگوں کے رہنے کی جگہ شدہ کی کھیلوں کا چھتہ۔

جَزَع الوادی۔

الجَزَع و الجَزَع - رہٹ کا دھرا۔ الجَزَعَة و الجَزَعَة - تھوڑی چیز۔ بقیہ۔

ج - جَزَع۔

الجَزَعَة - چھری کا دستہ۔

الجَزِيْعَة - بھیڑوں کے رہوڑ کا ایک حصہ۔

ج - جَزَائِع۔

المَجْزُوع - بہت بے صبرا۔

ج - مَجْزِيْع۔

المَجْزُوع و المَجْزُوع - من الرطب - نیم پختہ کھجور۔ سفید و سیاہ چیز۔ حوض مُجْزَع۔ وہ حوض جس میں شور و آسائیاں بچا ہو۔

جَزَف - (ن) جَزَفًا و اَجْزَف۔ الشَّيْء - چیز کا بے تولے ناپے اٹکل سے بیچنا یا خریدنا۔

و (د) اَجْزَاف - بتثلیث الجیم۔ و (د) اَجْزِيف - اٹکل اور تخمینہ کی بیج۔

کے ہیں۔ بیع جَزِيف و بیع جَزَاف۔

جَاسِر فہ مجاسر فہ۔ اٹکل اور تخمینہ سے بے تولے ناپے خرید و فروخت کرنا اور اسی سے ہے۔

جَاسِر فہ کلامہ۔ بے تکی اور بے اصولی باتیں کرنا۔

جَازِف بِنَفْسہ - جان کو خطرہ میں ڈالنا۔ جان پر کھیلنا۔

الجَزَاف - شکاری۔

الجَزُوْف - من الحوامل - ولادت کی حد سے گزرنے والی۔

المَجْزُفَة - مچھلی پکڑنے کا جال۔

جَزَل - (د) جَزَالَة۔

الشَّيْء - بڑا ہونا۔ موٹا ہونا۔

المنطق - فصیح ہونا۔

صفت (جَزَل)۔

ج - جَزَال و (د) جَزِيل۔

ج - اَجْزَال و جَزَال -

الوجل - صائب الرائے ہونا۔

جَزَل (ص) جَزَلًا۔

الشَّيْء - دو ٹکڑے کرنا۔

القَتَب غاصب البعير۔

کجاوہ کا اونٹ کی پیٹھ اور گردن کو کاٹ دینا۔ زخمی کر دینا۔

اَجْزَل العطاء و فی العطاء و من العطاء لِفُلَان و

عَلِيْہ - کسی کو بخشش دینا۔ اور بہت دینا۔

اِسْتَجْزَل - کسی چیز کو بڑا یا موٹا یا کسی کلام کو فصیح پانا۔

اِسْتَجْزَل سَرَايَہ - کسی کو صاحب الرائے پانا۔

الجَزَل - موٹا۔ بڑا۔ بہت فیاض۔ اچھی رائے والا۔ عمدہ الفاظ۔

الجَزَال و الجَزَال - کھجور کے پھل اتارنے کا وقت۔ کہتے ہیں۔

هَذَا مِنَ الْجَزَال - یہ کھجور کے پھل اتارنے کا زمانہ ہے۔

الجَزَال و الجَزِيل - بڑی اور بہت چیز۔

الجَزُونَال - کبوتر کا بچہ۔ ج - جَزَايِل۔

جَزَمَہ (ص) جَزَمًا۔ کاٹنا۔

جَزَمَہ الحرف - حرف کو ساکن کرنا۔

الفعل - فعل کے آخر کو ساکن کرنا۔ یا حرف علت یا تثنیہ و جمع



سے نون گرا دینا۔
 الیسین۔ قسم پوری کرنا۔
 کہتے ہیں۔ حلفت یمیناً جزمًا۔
 الأمر۔ کسی امر کا قطعی فیصلہ کرنا
 مثلاً آپ کہیں۔ "أَمَرْتُهُ
 امرًا جزمًا میں نے اس کو
 قطعی حکم دیا۔
 هذا حکم جزم۔ یہ لازمی
 اور قطعی حکم ہے۔
 جزم علی الأمر۔ کسی امر
 کا پختہ ارادہ کرنا۔
 جزم علیہ الشئ۔ کسی پر
 کوئی چیز واجب ٹھہرانا۔
 الرجل آدمی کا دن رات میں
 ایک ہی مرتبہ کھانا۔
 (— و اجترم)
 النخلة۔ کھجور کے پھلوں کا اندازہ
 لگانا۔ تخمینہ لگانا۔
 وجزم۔
 عنہ۔ بزدل ہونا۔ عاجز ہونا۔
 علیہ۔ ساکت و خاموش ہونا۔
 القربة۔ مشک کو بھرنا۔
 تجزم۔ العود۔ لکڑی کا پھٹنا۔
 ترخنا۔
 ان جزم۔ العظم۔ ہڈی کا ٹوٹ
 جانا۔
 الحرف۔ حرف کا ساکن ہونا۔
 الجزم۔ مص کہتے ہیں۔ قلم
 جزم۔ برابر قلم والا قلم۔
 و امر جزم۔ قبل از وقت
 آجانے والا معاملہ۔
 الجزم۔ حصہ۔
 الجازم۔ فاجزم دینے والا کلمہ۔
 مثلاً "لم" وغیرہ۔
 سقاء جازم۔ بھری ہوئی مشک

بغیر جازم۔ سیراب اونٹ
 ج۔ جوازیم۔
 الجزمة۔ دن رات میں ایک
 مرتبہ کھانا۔
 الجزمة۔ بھڑوں کے ریوڑ کا
 ایک حصہ۔
 سقاء اواناء (مجزم)
 بھری مشک یا بھرا برتن۔
 جزی (ض) جزاء۔
 الرجل بکذا و علی کذا
 کسی کو بدلہ دینا۔
 جزی فلاناً حقہ۔ کسی کا
 حق ادا کرنا۔
 جزاء الشئ۔ کسی چیز کا کسی
 کے لیے کافی ہونا۔
 (— و اجزی)
 الأمر منه او عنده۔ قائم مقام
 ہونا۔ کہتے ہیں۔ "یجزی
 هذا من أو عن ذاك۔
 یہ اس کے قائم مقام ہے۔
 جاذاه۔ و جاذاه و جزاء
 بدلہ دینا۔
 تجازی۔ تجاسیاً۔ دہندہ و
 بدیدہ علی فلان۔ کسی
 سے اپنا قرضہ طلب کرنا۔ قرض کا
 تقاضا کرنا۔
 اجتزاء۔ کسی سے بدلہ مانگنا۔
 الجزاء و الجزاء و الجازیة
 و المجازاة۔ کسی چیز کا بدلہ۔
 جازیة کی جمع جوازی۔
 کہتے ہیں۔ جَزَتْكَ الْجَوَازِي
 تم نے اپنے فعل کا بدلہ پا لیا۔
 الجزیة۔ زمین کا محصول اور ٹیکس
 جو زمین سے لیا جاتا ہے۔ زمین کا
 خراج۔ ج۔ جزی و جزی

و جزاء۔
 الاجزی۔ بہت کافی۔
 کہتے ہیں۔ "اللحم المبین
 اجزی من المہذول۔"
 یعنی موٹا تیار گوشت دبلے گوشت
 سے بہتر ہے۔
 جسہ (ن) جسا و اجتسہ۔ پتہ
 لگانے کے لیے ہاتھ سے چھونا۔ ٹھونکنا۔
 الارض۔ زمین روندنا۔
 ۵۔ بعینہ۔ گھورنا۔ تیز نظر سے
 دیکھنا۔
 جس۔ و تجسس و اجتنق۔
 الاخبار و الامور۔ خبروں
 یا کاموں کی تفتیش کرنا۔ ان کی دریافت
 میں لگنا۔
 الجیسس۔ ج۔ اجسہ (والجاسوس)۔
 ج۔ جواسیس۔
 و الجتاس۔ حالات دریافت
 کرنے والا۔ حالات کی تفتیش کرنے
 والا۔ جاسوس۔
 جواس۔ الانسان۔ انسان کے
 پانچ حواس۔
 واحد۔ جاسۃ۔
 المجس و المجسۃ۔ چھونے کی جگہ
 سینہ۔ کہتے ہیں۔ فلان صیق
 المجس۔ المجسۃ۔ یعنی فلان تنگدل
 آدمی ہے۔
 المجسۃ۔ نبض۔ کہا جاتا ہے۔
 (مجسۃ حاسۃ) اس کی نبض
 گرم ہے۔ ج۔ مجاس۔
 المجسۃ۔ چھونے کا آلہ۔ ج۔
 مجاس و مجلسات۔
 جسات (ن) جسا۔ وجسوءا
 وجساة۔
 الید و من العمل۔ کام سے

ہاتھ کا سخت ہوجانا۔ صفت۔
(جَاسِئَة وَجَسَاءُ)
الجَسْءُ۔ سخت کھال۔ جما ہوا پانی۔
الجَاسِئُ۔ من النبات ونحوہ۔
خشک۔

جَسَدٌ (س) جَسَدًا۔ الدُمُ بہ۔
خون کا چمٹنا۔ چپکنا۔ صفت۔
(جَسِید وَجَاسِید)
جَسَدٌ (س) جَسَدًا۔ زعفران سے رنگنا۔
تَجَسَّد۔ جسم ہونا۔ مضبوط ہونا۔
الجَسَد۔ جسم انسانی۔ زعفران۔
خشک خون۔

ج۔ آجَسَاد۔ نسبت کے لیے
جَسَدِی د جَسَدِانی۔
الجَسَاد۔ پیٹ کا درد۔
الجَسِید۔ خشک خون۔
المُسَجَّد۔ بدن سے متصل۔ قیہی۔

بنیان۔
جَسَرْدن، جَسَارَةٌ وَجُسُورًا
علی الامر۔ کسی کام کی طرف
اقدام کرنا۔ کوئی کام اختیار کرنا۔
(وَتَجَاسَّرَ، فخر کرنا
جرات کرنا۔

جَسَرْدن، جَسَرًا۔ پُل بنانا۔
(وَجَسَّرَ)
المَفَارِئَة۔ بیابان کو عبور کرنا۔
طے کرنا۔

جَسَرٌ۔ شجاع بنانا۔ دلیر بنانا۔
الجَسْرُ وَالْجَسْرُ۔ پُل۔
ج۔ جُسُوس۔ وَاَجَسُر۔
الجَسْرُ مِنَ الْاِیْل۔ بڑا اونٹ
مِنَ الرِّجَال۔ بڑے ڈیل
ڈول والا آدمی۔ مَوْنُک۔
جَسْرَةٌ۔

الْجَاسِر۔ ج۔ جُتَّار وَجَاسِرُونَ

وَالْجَسُوسُ) ج۔ جُسُوس۔
وَجُسُر۔ شجاع۔ بہادر۔ آگے
بڑھنے والا۔
مَوْنُک۔ جَاسِرَةٌ۔ وَجَسُوس۔
ج۔ جَوَاسِر۔

الْجَسْرَةُ۔ دلیری۔ بہادری۔
الْجَسَّاس۔ بہت من چلا۔ بہت دلیر
و بہادر۔

جَسَعٌ (ف) جُسُوعًا۔
عن العطاء۔ عطا سے رکنا۔
باز رہنا۔

الْجَاسِع۔ من السفر۔ دور دراز
کا سفر۔ لباس سفر۔

جَسَمَدَن، جَسَامَةٌ۔ تناور ہونا
موٹا ہونا۔ مضبوط ہونا۔

صفت (جَسَام وَجَسِیم)
ج۔ جَسَام۔ مَوْنُک جَسَامَةٌ
وَجَسِیمَةٌ۔

جَسَمَدَن۔ موٹا اور مضبوط کرنا۔
جسم دار بنانا۔

تَجَسَّم۔ تناور اور موٹا ہونا۔

"تَجَسَّم فی عینی کذا" خیال
و تصور میں آنا۔

الامر۔ کسی امر عظیم کی طرف اقدام
کرنا۔

الدمل۔ ریگستان کے بیشتر حصہ
کو طے کرنا۔

فَلَانًا مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ۔ کسی کو
قوم میں سے چن لینا۔

الارض۔ کسی سرزمین کا ارادہ
کرنا۔ کہتے ہیں۔ "تَجَسَّم

فَلَانٍ مِنَ الْکُفْرِ۔ یعنی فلاں شخص
کرم و فیاضی کا پتلا ہے۔

الجَسْم۔ بدن۔ وہ شے جو طول و عرض
اور عمق رکھتی ہو۔

ج۔ اَجْسَامُ دَاجِمٌ وَجُسُوم۔
نسبت کے لیے (جَسِیمٌ وَ
جَسَمَانِی)

الجَسْمَان۔ جسم۔ بدن۔

الجَسْم۔ بڑے بڑے امور۔

الْاَجْسَم۔ تناور اور بڑا۔

الْمُجَسَّم۔ مُکَبَّب۔ ہر وہ چیز جو طول و
عرض اور عمق رکھتی ہو۔

جَسَادَن، جَسُوءًا وَجُسُوءًا۔
بمعنی جَسَاء۔

جَاسَاہُ مُجَاسَاةً۔ دشمنی کرنا۔

جَشَّہ (ن) جَشَّأ۔ کوٹنا۔ توڑنا۔

جَشَّ الْمَكَانَ۔ کسی جگہ جھاڑو دینا۔

اس کو صاف کرنا۔

ع۔ بِالْعَصَا۔ کسی کو لاٹھی سے مارنا۔

دَمَعًا۔ آنسو بہانا۔ نکالنا۔

الْقَوْمُ۔ لوگوں کا کوچ کرنا۔

جمع ہونا۔

اَجَشَّ۔ الشَّيْءَ۔ کسی شے کو کوٹنا۔
توڑنا۔

الْبَرَّ۔ گھوڑوں کو موٹا پسینا۔ پھولی
نکالنا۔ دلیا دلنا۔

صفت (جَشِيشٌ وَجَشْشُوشٌ)

اَجَشَّ وَاجَشَّشَ۔ المکان۔ وہ
جگہ جس کی گھاس اور نباتات گھنی اور

گنجان ہو۔

اَلْجَشَّ۔ مَص۔ موضع جَشَّ۔
پتھریلی جگہ۔

الْجَشَّةُ وَالْجَشَّةُ۔ لوگوں کا
ایک ساتھ آنے والا گروہ۔ بھونڈی

آواز۔

الْاَجَشَّ۔ بھونڈی آواز والا

آدمی۔ مَوْنُک۔ جَسَاء۔

الْمَجَشَّ وَالْمَجَشَّةُ۔ پھولی یا دلیا
دلنے کی چکی۔



جَشَاتُ نَفْسِهِ (ف)، جَشُوْءًا
وَجُشًا وَجَشَاءً۔ خوف یا غم
کے باعث جی متلانا۔
المكان۔ کسی جگہ کا خوب پودے آگنا
من المكان۔ کسی جگہ سے نکلنا۔
البحر۔ سمندر کا بیچان میں آنا۔
جَشًا۔ تَجَشُّعًا۔ تَجَشُّوْءًا۔
ڈکار لینا۔
اجْتَشَأَ۔ البلاد۔ وَاَجْتَشَأَتْهُ
البلاد۔ ملک کو ناموافق پانا یا
ملک کا ناموافق ہونا۔
الجَشَاءُ۔ ڈکار۔ واحد۔ جَشَاةٌ
وَجُشَاةٌ۔
جَشَبَ (ن) وِجَشِبَ۔ (س)،
جَشِبًا وِجَشِبٌ۔ (ك)،
جشابہ۔
الطعام۔ کھانے کا موٹا اور
بد ذائقہ ہونا۔
صفت رَجَشِبٌ وِجَشِبٌ و
جَشِبٌ وِجَشَابٌ وِجَشُوبٌ
وِجَشِبُ الرجل۔ کسی کا
بد غذا ہونا۔ بری خوراک پر گزارہ
کرنا۔
الجَشِبُ۔ موٹے جسم والا بہادر۔
جَشَرْدَن) جَشْرًا وِجَشْرًا۔
المواشئ۔ مویشی کو چرانے کے
لیے جانا۔
وِجَشْرًا الاناء۔ برتن کو
خالی کرنا۔
جَشَرْدَن) جَشُوْرًا۔
الصَّبْرُ۔ پوچھنا۔
الرجل۔ سفر کرنا۔
جَشَرْدَن) جَشْرًا وِجَشْرًا۔
آواز کا بیٹھنا۔ کھانا۔
صفت۔ آجَشَر۔ موٹ۔

جشراء۔ ج۔ جَشْر۔
الجَشَرُ والجَشْرُ۔ وہ مویشی
جو چراگاہ سے لوٹ کر شام کو گھر
پر نہ آئیں۔ وہ لوگ جو چراگاہ میں
رات گزاریں اور اپنے گھروں کی
طرف واپس نہ ہوں۔
الجَشَارِي۔ چرواہا۔
الجَشَر۔ حوض۔
ج۔ مَجَاشِر۔
جَشَع (س)، جَشَعًا وِجَشَعٌ
بدرخص اور لالچی ہونا۔
صفت (جَشَع) ج۔ جَشَعُونُ
وِجَشَاعِي وِجَشَعَاءُ وِجَشَاع
تَجَشَّعًا۔
الماء۔ باہم تنگی کرنا اور پیاسا
رہنا۔
جَشَمَ (س) جَشَمًا وِجَشَمَةً
وِجَشَمًا۔
الامر۔ تکلیف و مشقت سے
کام کرنا۔ کہتے ہیں۔
جَشِمْتُ إِلَيْكَ عَوَقَ الْغَرَابَةِ
یعنی میں نے تمہاری وجہ سے بڑی
مشقت برداشت کی۔
وِجَشَمَ الرمل۔ ریگستان کے
بیشتر حصہ کو عبور کیا۔
وِجَشَمَ فلانًا من بين
القوم۔ اس نے قوم میں سے
فلاں کو چنا اور اسی کی روش و
طریقے پر چلا۔
جَشَمَهُ وَاَجَشَمَهُ۔
الامر۔ کام کرنے کی تکلیف دینا
کہتے ہیں۔ مہما تَجَشَمَتْنِي فَاَلِي
جَا شَمَ۔ جس چیز کی تم مجھ کو
تکلیف دو گے، میں جھیلوں گا۔
الجَشَمُ والجَشَمَةُ۔ بوجھ۔ بھاری

کام۔ کہتے ہیں۔ الفی علی
جَشَمَهُ۔ اس نے اپنا بوجھ مجھ پر
ڈال دیا۔
من البعير۔ اونٹ کا سینہ۔
الجَشَمُ والجَشِيمُ۔ موٹا۔ بھاری۔
الجوشن۔ سینہ۔ زرہ۔
جوشن الليل۔ وسط شب۔
جَصَّ (من) جَصًّا وِجَصِيصًا۔
سخت بندھ جانے کی وجہ سے
کراہنا۔
جَصَّصَ۔ البناء۔ گھر پر سفیدی
کرنا۔ گچ کرنا۔
الجرو۔ پلے کا آنکھیں کھولنا۔
العنقود۔ پھولنا۔
على العدو۔ دشمن پر حملہ کرنا۔
اَجْتَصَّ وِجَصًا۔ القوم۔ قریب
قریب ہو کر اکٹھا ہونا۔
الجَصَّ والجَصَّصَ۔ گچ۔ چوڑ۔
الجَصَّاصَ۔ گچ والا۔ گچ بیچنے والا
الجَصَّاصَةُ۔ چوڑے کا کارخانہ۔
چوڑے کی بھٹی۔
الجَصِيصَةُ۔ پاس پاس رہنے والے
آدمیوں کا گروہ۔
جَصَّ (ن) جَصًّا۔
عليه بالسيف۔ کسی پر تلوار
سے حملہ کرنا۔
جَعَبَهُ (ف) جَعَبًا وِجَعَبَهُ
تَجَعَّبًا وِجَعَبًا، جَعْبَاةٌ
وِجَعْبَاءٌ۔ الٹ دینا۔ پچھاڑ
دینا۔
جَعَبَ الجعبة۔ ترکش بنانا۔
تَجَعَّبَ وَاَجَعَبَ وِجَعَبِي
پچھاڑ جانا۔
تَجَعَّبِي الجيش۔ فوج کا
بھیڑ کر کے ایک دوسرے پر



<p>(اَبُو جَعَّاسٍ وَاُمُّ جَعَّاسٍ) بَجَوَّ.</p> <p>اَبُو جَعَّوَان - گبریلہ۔</p> <p>اُمُّ جَعْرَان - بڑا گدھ۔</p> <p>الْجَاعِرَتَان - جانور کے سرین کے وہ حصے جن پر دم ہلاتے وقت لگتی ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کوی دابتہ علی جا عریترہا۔</p> <p>الْجَعْرَاء - وَالْمَجْعَر - دُبر جَعَس (ف) جَعَسًا۔</p> <p>الرَّجُلُ - آدمی کا پاشخانہ کرنا۔</p> <p>تَجَعَّسَ - گھن کھانا۔ فحش کہنا۔</p> <p>جَعِظَ (س) جَعْظًا - بدخلق و تند مزاج ہونا۔</p> <p>صفت (جَعِظٌ وَجَعِظٌ) جَعْظُهُ (ف) جَعْظًا وَجَعْظُهُ۔</p> <p>دفع کرنا۔ بٹانا۔</p> <p>جَعَفَهُ (ف) جَعْفًا وَجَعَفَهُ۔</p> <p>پسچاڑنا۔ گرا دینا۔</p> <p>جَعَفَ - وَاجْتَعَفَ - الشَّجَرَةُ - درخت کو جڑ سے اکھڑانا۔</p> <p>أَنْجَعَفَتِ - الشَّجَرَةُ - درخت کا جڑ سے اکھڑ جانا۔</p> <p>سَيَّلَ جَاعِفٌ وَجَعَاؤٌ - وہ بیخ کن سیلاب جو ہر چیز کو کھود کر لے جائے۔</p> <p>الْجَعْفَ - مص - وہ تھوڑی روزی جس میں سے کچھ بچ نہ سکے۔</p> <p>الْجَعْفَى - دریا۔ ندی۔ بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔</p> <p>جَعَلَهُ (ف) جَعْلًا - بنانا۔</p> <p>پیدا کرنا۔ جیسے جَعَلَ اللّٰهُ الظُّلُمَاتِ - رکھنا۔ تبدیل کرنا جیسے جَعَلَ الْحُسْنَ قَبِيحًا۔</p> <p>گمان کرنا۔ خیال کرنا۔ جیسے جَعَلَ</p>	<p>جَعَدَ (ك) جَعَادَةً وَجُعُودَةً - (الشَّعْرُ - بالوں کا گھونگھریالے ہونا۔</p> <p>جَعَدَ - الشَّعْرُ - بالوں کو گھونگھریالے بنانا۔</p> <p>تَجَعَّدَ - الشَّعْرُ - گھونگھریالے ہونا۔</p> <p>وَتَجَعَّدَ الشَّيْءُ - کسی چیز کا سکر جانا۔</p> <p>الْجَعْدُ - مِنَ الشَّعْرِ - گھونگھریالے بال۔ کہا جاتا ہے - هُوَ جَعْدُ الْيَدِ - وہ بخیل ہے۔</p> <p>جَعْدُ الْقَطْ - وہ شخص جس کے حسب میں عیب اور کھوٹ ہو۔</p> <p>ج - جُعَاد -</p> <p>تَرَابٌ جَعْدٌ - نناک مٹی۔</p> <p>وَجْهٌ جَعْدٌ - گول۔ کم لاحت والا چہرہ۔</p> <p>زَبْدٌ جَعْدٌ - تہ بہ تہ کھن۔</p> <p>اَبُو جَعْدَةَ وَ اَبُو جَعَادَةَ - اَبُو جَعَادَةَ - بھیڑیے کی کنیت جَعَوْد (ف) جَعْرًا وَ اَنْجَعَرَ - السَّبْعُ - درندہ کا پاخانہ کرنا۔</p> <p>تَجَعَّرَ - کنویں میں اترتے وقت کمر سے رسی باندھنا۔ اس خوف سے کہ کہیں کنویں میں نہ گر جائیں۔</p> <p>الْجَعَّر - درندہ کا پاشخانہ۔ جَعُوسَ -</p> <p>الْجَعَّاس - وہ رسی جس کو کنویں میں اترنے والا اپنی کمر سے باندھ لیتا ہے اور اس کا دوسرا سرا کسی کھونٹے سے تاکہ وہ کنویں میں نہ گر جائے۔</p> <p>جَعَّاسٍ - بروزن - قَطَامٌ - و</p>	<p>چڑھنا۔ اور آپس میں دھکا پیل کرنا۔</p> <p>الْجَعْبَةُ - ترکش۔</p> <p>ج - جَعَاب -</p> <p>الْأَجْعَب - بڑے پیٹ والا جو کام میں مٹھا ہو۔</p> <p>مُونَث - جَعْبَاء -</p> <p>ج - جُعْب - الْجَعْبَاء - سُرِين -</p> <p>الْجَعَاب - ترکش بنانے والا۔</p> <p>وَالْجَعَابَةُ - ترکش بنانے کا پیشہ۔</p> <p>الْجُعُوب - بد شکل و پست قد۔</p> <p>ج - جَعَابِيْب -</p> <p>جَعْبَحَمَ - الْبَحِير - اونٹ کو بٹھانے یا اٹھانے کے لیے حرکت دینا۔ بٹھانا۔</p> <p>الْبَحِير - اونٹ کا بیٹھنا۔</p> <p>بِالْغَرِيمِ - مقروض سے سختی سے مطالبہ کرنا۔</p> <p>فِي الْمَكَانِ - کسی جگہ غیر مطمئن حالت میں بیٹھنا۔</p> <p>تَجَعَّجَمَ - درو کے سبب زمین پر گر پڑنا۔</p> <p>الْجَعَّجَعَةُ - مص - اکٹھے ہونے والے اونٹوں کی آواز۔ چکی چلنے کی آواز اور اسی سے یہ مثل مشہور ہے۔ اَسْمَعُ جَعَّجَعَةً وَلَا أَرَى طَحْنًا - چکی کی آواز تو سنتا ہوں مگر آٹا نہیں دیکھتا۔</p> <p>یہ کہاوت اس بزدل کے لیے ہے جو بھپکیں تو بہت مگر کچھ کر کے نہ دکھائے۔ یا اس کنجوس کے لیے جو وعدے تو بہت کرے مگر ایک وعدہ بھی پورا نہ کرے۔</p> <p>الْجَعَّجَاع - تنگ اور سخت جگہ۔</p> <p>میدان کارزار - قُحْطُ زِدَہ زمین۔</p>
---	--	---

الحق باطلاً۔ اس نے سچ کو باطل خیال کیا۔ مقرر کرنا۔ جیسے جَعَلَهُ حَاكِمًا۔ اس نے اس کو حاکم مقرر کیا۔

لَهُ كَذَا عَلَى كَذَا۔ شرط باندھنا۔ کرنے لگنا۔ شروع کرنا۔ جیسے۔ جَعَلَ يَكْتُبُ۔ وہ لکھنے لگا۔ اور دینے کے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے۔ لَجَعَلَ لِي لِسَانٌ صِدْقٍ۔ یعنی مجھ کو سچی زبان عطا فرما۔

جَعَلَ (س) جَعَلًا۔ الماءُ۔ پانی میں سیاہ کیڑوں کا بہت پیدا ہو جانا الغلامُ۔ لڑکے کا مٹاپے کے ساتھ پست قد ہونا۔

الرجلُ۔ آدمی کا جھگڑا لو ہونا۔ جَاعَلَهُ مُجَاعَلَةً۔ رشوت دینا آجَعَلَ۔ لہ۔ کسی کام پر مزدوری مقرر کرنا۔

الماءُ۔ پانی میں سیاہ کیڑوں کی کثرت ہونا۔

اجعله جُعَلًا۔ مزدوری دینا۔ تَجَاعَلُوا۔ الشیءُ۔ مل کر کسی چیز کو بنانا۔ اِجْتَعَلَهُ۔ گھڑنا۔

الشیءُ۔ بنانا۔ لینا۔ کہتے ہیں۔ الشیءُ فَاِجْتَعَلَهُ۔ اس نے اس کو کوئی چیز دی اور اس نے اس سے لے لی۔

الجُعَلُ۔ ج۔ جعلان۔ سیاہ بھونرا۔ سیاہ اور بد شکل آدمی، یا جھگڑالو۔ نگہبان۔ ماءٌ (جعل وجعل) بہت سیاہ کیڑوں والا پانی۔

الجَعَالُ۔ ج۔ جُعِلَ وَ (الجُعَلُ)۔ ج۔ اَجْعَالُ وَ (الجَعَالَةُ) بتثلیث الجیم۔ وَ (الجَعِيلَةُ)۔ ج۔ جَعَائِلُ۔ مزدوری۔ اجرت فوجی سپاہی کا وظیفہ یا اس کی تنخواہ۔

الجَعَالُ۔ وہ صافی جس سے پکڑ کر دیکھ چو لھے پر سے اتاری جائے۔ جَعَمَهُ (ف) جَعَمًا۔ جانور کے منہ پر تھوٹھنی پڑھانا کہ وہ کاٹنے کھانے سے رک جائے۔

جَعَمَ وَ جَعَمَ (س) جَعَمًا۔ کھانے کی اشتہان ہو۔ کھانے کی خواہش کرنا۔ کہتے ہیں۔ جَعَمَ إِلَى اللَّحْمِ۔ وہ گوشت کا بہت دلدادہ ہے۔

جَعَمَ وَ تَجَعَمَ۔ فی الشیءِ۔ کسی چیز کی طرح کرنا۔ صفت۔ (جَعَمٌ وَ جَعَمٌ) آجَعَمَ۔ الشَّجَرُ۔ درخت کے پتے جڑ تک چر جانا۔

الشیءُ۔ کسی شے کی بیخ کنی کرنا۔ الجَعْمُ۔ بھوک۔

الجَعْمُ۔ وہ بھوکا جو ہر شے کو دیکھ کر کھانے کی خواہش کرے۔ المَجْعَمُ۔ پناہ لینے کی جگہ۔ جَعَا (ن) جَعَوًا۔ البحرُ وَ غَوَا۔

مینگیاں وغیرہ جمع کر کے ڈھیر لگانا۔ الجَعَّةُ۔ جو کی شراب۔ الجَعْوُ۔ ہاتھوں سے لگایا ہوا ڈھیر کیپڑ۔ چوڑ۔

الجَعْرَانِيَّةُ۔ علم جغرافیہ۔ جَفَتْ (ض) جَفَاً وَ جَفُوًا۔ خشک ہونا۔ سوکھنا۔

صفت (جَاثٌ وَ جَفِيفٌ)

کہتے ہیں۔ "جَفَتْ لَبْدُهُ" اس نے سفر و کوچ کو چھوڑ کر اقامت اختیار کر لی۔

جَفَتْ (ن) جَفَاً۔ المَالُ۔ مال جمع کر کے چھپت ہو جانا۔ جَفَفَهُ۔ تَجَفَّفًا وَ تَجَفَّفًا۔ خشک کرنا۔ سکھانا۔

جَفَفَتْ۔ الفَرَسُ۔ گھوڑے کو پاکر پہنانا۔ تَجَفَّفَ۔ خشک ہونا۔ اِجْتَفَتْ۔ مَا فِي الْأَنَاءِ۔ برتن کا سب کچھ چٹ کر جانا۔

الجَفْتُ۔ وَالْجَفَّةُ وَالْجَفْتُ وَالْجَفَّةُ۔ لوگوں کی بڑی جماعت بڑی تعداد۔ کہتے ہیں۔ "جَاءَ الْقَوْمُ جَفَّةً" قوم ساری کی ساری آئی۔

الجَفْتُ۔ ہر کھوکھلی چیز۔ پوٹے بانس یا نرکل کی ٹنگی کی طرح۔ بوڑھا۔ کہا جاتا ہے۔ "هُوَ جَفْتُ مَالٍ"۔ وہ مال کا منتظم ہے۔

الجَفَفَ۔ خشک وسخت زمین۔ الجَفِيفُ۔ خشک گھاس۔

الجَفَاثُ۔ سوکھی ہوئی چیز۔ التَّجَفُّفُ وَ التَّجَفُّفُ۔ لڑائی میں بچاؤ کے لیے ذرہ کی مانند ایک آلہ۔ ج۔ تَجَاوَفَ۔

جَفَاً (ف) جَفَاً۔ الشَّمَرُ۔ دریا کا جھاگ اور کوٹا کرکٹ لانا۔ القَدَسُ۔ ہانڈی کا اُپھان میں آنا۔

القَدَسُ۔ ہانڈی کو اونڈیل دینا۔ جَفَا الرَّجُلُ وَ جَفَاً بَدَ الْأَرْضِ۔ پٹک دینا۔

ج



أَجْفَأَ بِهِ - کسی کو بچھاڑ دینا۔

پٹک دینا۔

السَّاقَتَةُ - اونٹنی کو چلا کر تھکا

دینا۔

الْبَابُ - دروازہ بند کرنا۔

أَجْفَأَتْ وَتَجَفَّاتٍ - البلاد -

ملک کا بے برکت ہونا۔

أَجْتَفَا - الشَّيْءَ - کسی چیز کو اکھیڑ کر

سیلاب کا پھینکنا۔

الْجُفَا - کنارہ ٹائے دریا پر سیلاب

کا پھینکا ہوا بے کار و بے فائدہ

شے۔ خس و خاشاک۔

كَمَا جَاتَا هُـ "ذَهَبَ جُفَاءً"

یعنی رائیگان گیا۔

جَفَّجَتْ - الْإِبِلَ - اونٹوں کو اس

تیزی سے ٹانگنا کہ وہ ایک دوسرے

پر چڑھنے لگیں۔

تَجَفَّجَتْ - الطَّائِرُ - پرند کا انڈے

سینا۔

الثَّوْبُ - گیلے کپڑے کا خشک ہو کر

کچھ مندرارہ جانا۔

الْجَفَّجَفُ - بلند زمین - پست

زمین۔

الْجَفَّجَفَةُ - نئے کپڑے کی

کھڑکھڑاہٹ۔

جَفَّجَفَةُ الْمَرْكَبِ - لشکر کے

چلنے کی آواز۔

الْجَفَّاجِفُ - ہیئت و لباس۔

جَفَّخَ (د ن ض) جَفَّخًا - تکبر کرنا۔ فخر کرنا

صفت (جَفَّخَ -)

جَافَخَهُ - کسی کے مقابلہ میں فخر کرنا۔

جَفَّرَ (د ن) جَفَّرًا وَتَجَفَّرَ -

وَاسْتَجَفَّرَ -

وَلَدُ الشَّاةِ - بکری کے بچہ کا

بڑا ہونا۔ اور بڑے پیٹ والا ہونا۔

الشَّيْءَ - کشادہ ہونا۔

جَفَّرَ مِنَ الْمَرَضِ - بیماری

سے نجات پانا۔

جَفَّرَ مَا كَانَ فِيهِ - چھوڑنا۔

جَفَّرَ صَاحِبَهُ - قطع تعلق

کرنا۔

الْجَفَّرُ - مص - کشادہ کنواں - جہ

جفاس۔

کتے ہیں - فلان منهدم

الْجَفَّرُ - فلان اپنی کوئی رائے نہیں

رکھتا یعنی عقل سے عاری ہے۔

وَفَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ جَفَّرٍ

وَجَفَّرٍ كَذَا - میں نے اس کو

اس کی وجہ سے کیا۔

عِلْمُ الْجَفَّرِ - یہ ایک علم ہے۔

جس میں اسرار حروف سے بحث ہوتی

ہے اور اس کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ

وہ اس کی مدد سے آئندہ حالات و

واقعات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔

الْجَفْرَةُ - مِنَ الشَّيْءِ - چیز کا

بیچ۔ وسط شے۔

مِنَ الْأَرْضِ - گول پھیلی ہوئی زمین۔

جہ۔ جَفَّرُ وَجَفَّاسُ -

الْجَفَّيْرُ - محض کڑی یا محض چمڑے

کا ترکش۔

جَفَّسَ (س) جَفَّسًا وَجَفَّاسَةً

بد معنی ہونا۔

الْجَفَّسُ وَالْجَفَّسَ وَالْجَفَّيْسُ

کمزور۔ کمینہ۔

جَفَّظَ (د ن) جَفَّظًا -

الْإِنَاءُ - برتن بھرنا۔

إِجْفَظًا وَإِجْفَظًا إِجْفَظًا

الْمَقْتُولُ - مردہ لاش کا

پھولنا۔

صفت (جَفَّيظًا)

جَفَّعَهُ (ف) جَفَّعًا -

جَفَّلَ (د ن) جَفَّلًا - الطَّائِرُ -

پرند کو ہشکانا۔ کتے ہیں۔

جَفَّلَ الْقَنَاصُ الْوَحْشَ

عَنْ مَرَاغِيهَا - شکاری نے

وحشی جانوروں کو ان کی چراگاہوں سے

بدکا دیا اور ڈرا دیا۔

الْبَحْرُ السَّمَكُ - سمندر کا مچھلی کو

کنارہ پر ڈال دینا۔

الرَّيْحُ السَّحَابُ - ہوا کا بادل کو

اڑا لے جانا۔

۵ - کسی کو بچھاڑ دینا۔

الْطَّيْنُ - مٹی کو بیلچے سے کھرچ لینا۔

الْمَتَاعُ - سامان پر سامان

رکھنا۔

جَفَّلَ (د ن ض) جَفُولًا وَجَفُلًا

وَأَجْفَلًا -

الْبَعِيرُ - اونٹ کا بدکنا۔ بھاگنا۔

صفت (جافل) و (جَفَّال)

النَّعَامَةُ - شتر مرغ کا بھاگنا۔

الرَّيْحُ - ہوا کا تیز چلنا۔

(-) وَانْجَفَلَ وَتَجَفَّلَ

الْقَوْمُ - لوگوں کا تیز بھاگنا۔

جَفَّلَهُ - بدکانا۔ بھگانا۔

تَجَفَّلَ - الدِّيكُ - مرغ کا گلے کے

پروں کو پھیلانا۔

الْجَفَّلُ - بارش کے بعد کا پانی

سے خالی بادل۔ شتر مرغ۔ جو ہر

شے سے بدکے۔ ہاتھی کی لید۔

کشتی۔ جہ۔ جَفُولُ -

الْجَفَلَةُ - مِنَ الشَّجَرِ - بہت

پتوں والا درخت۔

الْجَفَلَةُ - اون کا گھما۔

الْجَفَالُ - دودھ کی جھاگ۔ بہت اون

کنارہ ٹائے دریا پر سیلاب کا ڈالا

ہوا خس و خاشاک۔

الْجَفَالَةُ - من القدس۔ مانڈی
کا جھاگ جو بچے سے نکالا جائے
ریحٌ رَجْفُولٌ ج۔ جَفْلٌ۔
وَدُجْفِيلٌ وِجْفَالٌ وِجْفَالَةٌ
وہ تیز ہوا جو بادل کو اڑالے
جائے۔

الْجَفْلِيُّ - عام دعوت۔ کہا جاتا ہے
”دُعَى فُلَانٌ فِي النِّقْرَى لَا
فِي الْجَفْلِي“ یعنی وہ خصوصی
دعوت میں بلایا گیا نہ عمومی دعوت
میں۔

الْجَفِيلُ - بہت۔ زراعت کا وہ بڑھا
ہوا حصہ جو کھیتی کو ہلکا کرنے کی
خاطر چھانٹ دیا جائے۔

الْجَفِيلُ - بزدل۔
الْجَفْلَقُ - بہت موٹی بوڑھی عورت۔
جَفْنٌ د ن۔ جَفْنًا۔

الناقۃ - اونٹنی کو ذبح کر کے
بڑے بڑے پیالوں میں کھلانا۔
نفسہ - اپنے نفس کو برائیوں
سے روکنا۔

(س۔ و تَجَفَّنَ)

الکومہ - بڑ پکڑنا۔

الْجَفْنُ - مص۔ اوپر نیچے کا پوٹا۔
تلوار کا میان۔ ج۔ اَجْفَانُ و
جَفُونُ وَاَجْفُنُ۔

الْجَفْنُ - انگور کی جڑ یا اس کی
ٹہنیاں۔ واحد۔ جَفْنَةٌ۔

الْجَفْنَةُ - بڑا پیالہ۔ وہ برتن
جس میں شراب بنا ٹی جلے۔
چھوٹا کنواں۔

ج۔ جَفْنٌ وِجْفَانٌ وِجْفَنَاتٌ۔
جَفَاً - يَجْفُو جَفَاءً وِجْفَاءَةً
ایک جگہ قرار نہ پکڑنا۔

علیہ کذا۔ کسی پر کچھ گرا ہونا
الشوب۔ کپڑے کا موٹا دیز اور
گاڑھا ہونا۔

جَذْبُهُ عَنِ الْفَرَّاشِ۔ قرار نہ
پانا۔

جَفَا۔ د ن۔ جَفَوًا وِجْفَاءً و
جَفَاً۔

صَاحِبُهُ۔ اعراض کرنا۔ بدسلوکی
سے پیش آنا۔

جَفَاً۔ بد اخلاق بنا دینا۔
تَجَا فِي۔ ع ن مکانہ۔ قرار نہ
پانا۔

أَجْفَى۔ الْخَيْلُ۔ گھوڑے کو تھکا
دینا اور چارہ نہ کھلانا۔
فُلَانًا۔ دور کرنا۔

تَجَا فِي۔ جگہ سے علیحدہ ہونا۔ الگ ہونا
کتے ہیں۔ ”تَجَا فِي السَّوْجِ عَنْ
ظَهْرِ الْفَرَسِ“۔ زمین گھوڑے کی
پیٹھ سے ہٹ گئی۔ ”تَجَا فِي“

جَذْبُهُ عَنِ الْفَرَّاشِ۔ اس کا پہلو
بستر سے دور رہا۔

اجْتَفَى۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو اس کی
جگہ سے ہٹانا۔ دور کرنا۔

اسْتَجَفَى۔ اسْتَجْفَاءً۔
الشَّيْءُ۔ کسی شے کو غلیط و

موٹا پانا۔
۴۔ کسی سے دوری چاہنا۔

الْجَفْوَةُ وَالْجَفْوَةُ۔ اجڑ پن
کھڑا پن۔ بدسلوکی۔

الْحَبَا فِي۔ موٹا۔

جَا فِي الْخَلْقِ اجْط۔ بد اخلاق
ج۔ جَفَاً۔ مؤنث جَافِيَةٌ۔

ج۔ جَافِيَاتٌ وِجَوَافٍ۔

جَفَى (د ن) جَفِيًا۔
الرجل۔ پچھاڑ دینا۔

(س۔ و اجْتَفَى)

النبات۔ پودے کو جڑ سے
اکیڑ دینا۔

جَقَّ۔ د ن۔ جَقًّا۔
الطَّائِدُ۔ پرند کا بیٹ کرنا۔

جَكَوْ د س۔ جَكَوًا۔ بیچنے میں اصرار
کرنا۔

جَلَّ۔ د ن۔ جَلًّا لَّا وَجَلًّا لَّةً۔
بڑی شان والا ہونا۔ حجم میں بڑا ہونا

عمر میں بڑا ہونا۔
کتے ہیں۔ جَلَّ فُلَانٌ فِي عَيْنِي۔
یعنی فلاں میری نظریں بڑے مرتبہ
والا ہو گیا۔

صفت (جَلِيلٌ)۔
ج۔ اَجَلَاءً وَاَجَلَّةً وِجَلَّةً۔
و د جَلَّ وِجَلَّ وِجَلَّالٌ و
جَلَّالٌ۔

جَلَّ وَتَجَالَّ۔ ع ن کذا۔ نفرت
کرنا۔ بیزار و بری ہونا۔ اپنے کو کسی
نقص سے بالا و برتر سمجھنا۔

تَجَالَّ عَلِيْهِ۔ بڑا بننا۔ دوسرے
پر اپنی بزرگی کا اظہار کرنا۔
(جَلَّ - جَلًّا وِجَلَّلَ)

الفرس۔ گھوڑے پر بھول ڈالنا۔
جَلَّ (د ن) جَلًّا وِجَلَّلًا۔

اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے
ملک میں چلا جانا۔
صفت (جَالٌ) ج۔ جَالَّةً۔

جَلَّ (د ن) جَلًّا وِجَلَّلًا وَاَجَلَّلَ۔
الْبَعْرُ۔ بینکیاں چننا۔ اٹھانا۔

۲ الشَّيْءُ۔ چیز کے بڑے حصہ کو
لینا۔

جَلَّلَ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کا عام ہونا۔

الشَّيْءُ۔ ڈھانپ لینا۔
اور اسی سے ہے ”حَبْلُ الْمَطْرُ





الاسمى - بارش نے زمین کو
 ڈھانپ لیا۔
 الرجل - کسی آدمی کی تعظیم بجالانا۔
 اجلہ اجلالہ - تعظیم کرنا۔
 عین العیب - عیب و نقص سے
 پاک کرنا۔
 الرجل - قوی ہونا۔ کمزور ہونا۔
 عمرو و سید - عمر کا زید کو بہت
 دینا۔ کہا جاتا ہے۔
 آیت فلا تا فما اجلتی و
 ما اذ قتی - میں فلاں کے
 پاس آیا تو اس نے مجھ کو نہ بہت
 دیا نہ تھوڑا۔
 تجلل - بڑا بننا۔
 بالشوب - کپڑا اوڑھنا۔
 تجللہ - غالب ہونا۔
 الجبل - مص - چنیل۔ گلاب کا پھول۔
 خواہ سفید و سرخ ہو یا زرد۔
 واحد - جلہ - بادبان۔ ج۔
 جلول۔
 الجبل و الجبل - جھول۔ ج۔
 جلال و اجلال۔
 جل الشی - چیز کا بڑا حصہ۔
 جبل البيت - خیمہ نصب کرنے
 کی جگہ۔
 والجبل - موٹا۔ بھاری۔
 کہتے ہیں۔ فعلہ من جلت
 اس نے اس کو تمھاری وجہ سے کیا۔
 الجبل - بہت۔
 کہتے ہیں۔ مالہ دق و لاجل۔
 یعنی اس کے پاس نہ تھوڑا ہے نہ بہت
 من المتاع - فرش و فرش
 اور چادریں۔
 رجل جل - بزرگ آدمی۔
 امر جل - بڑا معاملہ۔ سہل

و آسان امر۔
 کہا جاتا ہے۔ فعلته من
 جلتک و من اجلالک و
 من تجلتیک - میں نے
 تمھاری خاطر اور تمھاری تعظیم کی
 بنا پر یہ کیا۔
 الجلة - بتثلیث الجیم۔
 میٹنی۔ کہتے ہیں۔ قوم جلة
 بڑے صاحب عزت لوگ۔ یہ
 جلیل کی جمع ہے۔
 الجلة - بڑا ٹوکرا۔ ج۔ جلال
 و جل۔
 الجالة - اپنے وطن کو چھوڑنے
 والے لوگ۔
 الجلی - مونث۔ الاجل کی
 بڑا کام۔ امر عظیم۔ ج۔ جل۔
 التجلة - بزرگی و عظمت۔
 المجلة - رسالہ۔ کاپی۔
 الجلاکة - پلیدی کھانے والی
 گائے۔
 المجلل - فاسحاب مجلل - ہمہ
 گیر بارش برسانے والا بادل۔
 امر مجلل - عام معاملہ۔
 جلاء (ن) جلاء و جلاء۔
 و جلاءة - پچھاڑ دینا۔ زمین
 پر ٹپک دینا۔
 جلاء بالشوب - پھیکنہ۔
 جلبہ - (نض) جلبا و جلبا۔
 ہانک کر لے آنا۔
 الرجل - جانا۔
 الجرح - زخم کا اچھا ہونا۔
 (و) و جلب۔
 القوم - قوم کو جمع کرنا۔
 جلبہ و اجلہ - دھمکانا۔
 جلب و اجلب لاهلہ۔ اہل

عیال کے لیے کمانا۔
 جلب و اجلب علی الفرس۔
 چلا کر گھوڑے کو آگے بڑھانا۔
 جلب و اجلب الدم - خون
 خشک ہونا۔
 جلب و اجلب القوم۔
 لوگوں کا شور و شغب مچانا۔
 جلب (دس) جلبا۔ جمع ہونا۔
 جلب (ن) جلبا۔ علیہ۔ گناہ کرنا۔
 جلب - القوم - قوم کا پیچھا چلانا۔
 علی الفرس - گھوڑے کو ڈانٹنا
 ڈپٹنا۔
 (و) و اجلب
 القوم - لوگوں کا لڑائی کے لیے ہر
 طرف سے سمٹ آنا۔
 اجلب - جانا۔
 اجلبہ - لانا۔
 استجلبہ - درآمد کرنے کی
 درخواست کرنا۔ کسی چیز کو حاصل کرنا۔
 یا سبب بننا۔
 الجلب - مص۔ گناہ۔ جرم۔
 الجلب - مص۔ وہ مال جو ایک شہر
 سے دوسرے شہر لے جائیں۔
 ج۔ اجلاب۔
 (و) و الجلبہ - شور و غوغا
 غل شور۔
 الجلب - پانی سے خالی بادل۔ وہ بادل
 جو پہاڑ کی طرح نظر آئے۔ رات کی
 تاریکی۔
 جلب الرجل و جلبہ - کجاوہ
 کی لکڑیاں۔
 الجلبہ - کھڑنڈ۔ تہ بہ تہ پتھر جن
 میں جانوروں کے لیے راستہ
 باقی نہ رہے۔ گھاس کے متفرق قطعے۔
 سبز کانٹے دار درخت۔ بادل کا

ایک ٹکڑا۔ پالان پر لگایا جانے والا چڑھ۔
 جُلْبَةُ الشَّيْءِ۔ کڑا کے کی سردی۔
 چلنے کی سردی۔ ج۔ جُلْب۔
 الْجَلْبُوبُ۔ لایا ہوا۔ کھینچا ہوا۔
 کہتے ہیں۔ "عَبْدُ جَلْبُوبٍ"
 درآمد غلام۔
 ج۔ جَلْبُو د جُلْبَاء۔
 "وَأَمْرًا جَلْبُوبًا وَجَلْبُوبَةً"
 کھین سے لائی ہوئی عورت۔
 ج۔ جَلْبُو د جُلْبَاءُ۔
 الْجَلْبُوبَةُ۔ درآمد اسباب۔ وہ
 اونٹ جس پر سامان لاداجائے۔
 اس میں واحد و جمع یکساں ہیں۔
 الْجَلَّابُ۔ غلاموں کو تجارت کے لیے
 ایک شہر سے دوسرے شہر لے
 جانے والا۔
 الْجَلَّابُ وَالْجَلَّابُ۔ عرق گلاب
 میں شدید شکر سے تیار کیا ہوا شربت
 عرق گلاب۔
 الْجَلْبَانُ۔ مڑ۔ چڑے کا تھیلہ۔
 کہتے ہیں "رَجُلٌ جَلْبَانٌ وَجَلْبَانٌ"
 شور مچانے والا آدمی۔
 الْجَلَّابُ وَالْمَجْلَبُ۔ چلانے والا۔
 بکواسی۔ بدخلق۔
 الْمَجْلَبَةُ۔ کسی شے کے حاصل کرنے کا
 سبب اور باعث۔
 جَلْبَبَةٌ۔ چادریا قمیص پہنانا۔
 تَجَلْبَبُ۔ چادریا قمیص پہنانا۔
 الْجَلْبَابُ وَالْجَلْبَابُ۔ قمیص یا چادری
 ج۔ جَلْبَابُ۔
 جَلَّتْ رَحْمَتُ اللَّهِ وَاجْتَلَّتْ مَارَاتُ
 جَلْجَلُ۔ الرَّجُلُ۔ چیخنا۔ زور سے
 آواز نکالنا۔
 السَّحَابُ۔ بادل کا گرجنا۔
 جَلْجَلَةٌ۔ حرکت دینا۔

جَلْجَلُ الْوَتْدِ۔ تانت کو مضبوط
 بٹنا۔
 الْبَحِيرُ۔ اونٹ پر گھونگرو لٹکانا
 اونٹ کے بھانجھ باندھنا۔
 تَجَلَّجَلَتْ۔ قواعد البيت۔
 گھر کی بنیادوں کا ہل جانا۔
 تَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ۔ زمین میں
 دھنسننا۔
 الْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ۔ دل میں کسی
 خیال کا کھٹکنا۔
 الْجَلَّاجِلُ۔ گھونگرو۔
 واحد (جُلْجُل) جَلَّاجِلُ۔
 النَّفْسُ۔ وہ خیالات جو دل میں
 کھٹکیں۔
 کہتے ہیں۔ ثَبَّتْهُ جَلَّاجِلُ نَفْسِي
 میں نے اس پر اپنے دل کی باتیں
 کھول دیں۔
 الْجُلْجُلُ وَالْجَلَّاجِلُ۔ پھرتیلا تیز
 دست۔ کام میں چست۔
 الْجَلْجَلَةُ۔ معص۔ بادل کی گرج اور
 کڑک۔ گھنٹی کی جھنکار۔
 الْجُلْجُلَانُ۔ دھنیے کے دانے کشنیز
 تل۔ کُنْجَد۔
 جُلْجُلَانُ۔ الشَّيْءُ۔ بڑی چیز
 جُلْجُلَانُ الْقَلْبِ۔ سویدائے
 قلب۔ دل کا مرکز۔
 کہتے ہیں جُلْجُلَانُ الْقَلْبِ
 الی قمع الاذن۔ دل سے
 جو بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔
 الْمُجَلْجَلُ۔ قوی سردار۔ دور تک
 پہنچنے والی آواز رکھنے والا۔ گرجنے
 کڑکنے والا بادل بے عیب ظریف۔
 وعدہ مُجَلْجَلُ۔ بڑی تعداد۔
 جَلَّتْ دَفْ، جَلَّحًا۔ الماشية۔
 الشَّجَرُ۔ مویشی کا درخت کے

اوپر کے حصہ کو چر جانا۔
 جَلَّحَ (س) جَلَّحًا۔ سر کے دونوں
 جانب سے بالوں کا گرنا۔
 صفت۔ (أَجْلَحَ) ج۔ جُلَّحَ و
 أَجْلَحَ و جُلَّحَانُ۔
 مَرَّتْ۔ جَلَّحَاء۔
 الثَّوْسُ۔ بیل کا بے سینگوں والا
 ہونا۔
 الْأَرْضُ۔ زمین کی گھاس کا چر لیا
 جانا۔
 الْبَقْوَى۔ حفاظتی قلعوں کا باقی نہ
 رہنا۔
 جَلَّحَتِ الشَّجَرَةُ۔ درخت کا
 اوپر سے کھالیا جانا۔
 الْأَرْضُ۔ زمین کی گھاس کا چر لیا
 جانا۔
 جَلَّحَ عَلَى الشَّيْءِ۔ زبردست پیش
 قدمی کرنا۔
 فِي الْأَمْرِ۔ پختہ ارادہ کرنا۔
 السَّبْعُ عَلَى الْقَوْمِ۔ درندہ کا
 کود پڑنا۔ حملہ آور ہونا۔
 جَلَّحَتِ الْمَاشِيَةَ الشَّجَرَةَ۔
 مویشی کا درخت کو اوپر سے چر جانا۔
 جَلَّحَ۔ کھلم کھلا دشمنی کرنا۔
 جَلَّحَ بِالشَّيْءِ۔ صاف اور کھلے
 طریقے سے کرنا۔
 الْجَلَّحَةُ۔ سر کے دونوں جانب بال
 گرنے کی جگہ۔
 الْجَلَّاحُ۔ تباہ کن سیلاب۔
 أَرْضُ جَلَّحَاءُ۔ بنجر زمین جو روئیدگی
 نہ اگائے۔
 بِتَقْرِئِ جَلَّحَاءُ۔ بے سینگ کی
 گائے۔
 قَوِيَّةُ جَلَّحَاءُ۔ بے قلعہ والی آبادی۔
 سَطُوحُ جَلَّحَاءُ۔ کھلی چھتیں جن کے



اطراف میں کوئی دیوار یا روک نہ ہو جس سے انسان گرنے سے بچے۔
سنةٌ جَالِحَةٍ - قحط کا سال۔

ج۔ جَوَّاحٍ -

الجَوَّاحِ - روئی کے مانند ایک شے جو بانس کے سرے سے نکل کر اُڑتی یا گرتی ہے۔ برف کے ٹکڑے جبکہ وہ ایک دوسرے پر گریں۔

المُجَالِح - فاعل -

المُجَالِح والمُجَالِحَةُ - جارے میں دودھ دینے والی اونٹنی۔

ج۔ مَجَالِيحٌ -

المَجَالِيح - وہ بربادی کے سال جو مال کو تباہ کر دیں۔

المُجَالِح - پیٹو۔ بہت کھانے والا۔
طُصَّاهُ سِيرا -

جَلَحَ (ف)، جَلَحًا - السَّيْلُ

الوادی - سیلاب کا وادی کو پانی سے پر کر دینا۔ وادی کے اطراف کو کاٹنا۔

الشَّيْءُ - کھینچنا۔ وراڑ کرنا۔

بہ - پچھاڑنا۔
جَلَحَهُ بالسيف - گوشت میں سے کچھ کاٹ لینا۔

(وَجَلَحَ) الموسى - استرے کو تیز کرنا یا صیقل کرنا۔

أَجْلَحَ - الشَّيْءُ - بڑھے کا کمزور ہو کر ڈھیلے اعضا والا ہونا۔

الْجَلَاخ - زبردست سیلاب۔ گہری وادی۔

جَلَدًا (ض)، جَلَدًا - باليسيا ط۔
کوڑے مارنا۔

ع۔ على الامر - کسی امر پر مجبور کرنا۔

بالأمر من - پچھاڑنا۔ زمین پر پٹکنا۔

جَلَدًا (ك)، جَلَدًا وَجَلَدًا - وَجَلَدًا وَجَلَدًا - صبر و استقلال اور قوت والا ہونا۔

جَلَدًا (س) جَلَدًا وَجَلَدًا - أَجْلَدَ المكان - کسی جگہ پالا پڑنا صفت مفعول - (مَجْلُودٌ)

جَلَدًا - الكتاب - کتاب کی جلد باندھنا الجُزُوس - جانور کی کھال اتارنا۔

جَالِدًا - بالسيف - تلوار سے مارنا۔
أَجْلَدَ - اليه - کسی کا محتاج بنانا۔

مجبور کرنا۔

تَجَلَّدَ - انظار صبر کرنا۔ مضبوطی دکھانا۔
تَجَالَدُوا وَاجْتَلَدُوا -

بالسيف - باہم تلوار سے لڑنا۔
اجتلد الاناء - سار پی جانا۔

الْجَلْدُ - مص - مضبوط۔ قوی۔
ج آجَلًا - مؤنث - جَلَدَةٌ -

وَأَجَلَادُ الْإِنْسَانِ وَدُنْجَالِيدًا - انسان کا جسم اور اس کے اعضاء

کہتے ہیں: "مَا الشَّيْءُ أَجَلَادُ فُلَانٍ

فُلَانٍ بِالْجَلَدِ أَبِيهِ" فُلَان کے اعضاء بدن اس کے باپ

کے اعضاء سے کس قدر ملتے جلتے ہیں۔

الْجَلْدُ - آسمان یا نیلا گندہ۔ کھال۔
(وَالْجَلْدَةُ) سخت و کثرت

زمین۔

الْجَلْدُ - کھال۔
ج۔ أَجَلَادٌ وَجَلُودٌ وَدُنْجَالِيدَةٌ

کھال کا ٹکڑا یا کھال کی قسم۔
ج۔ جَلْدٌ -

کہتے ہیں۔ هُمُ مِنْ جِلْدِ تَنَّا۔
وہ ہمارے ہی قبیلہ اور خاندان

سے ہیں۔

الْجَلِيدُ - قوت والا۔ صابر۔

چالاک۔ ج۔ جَلَدًا وَجَلَدًا۔
وَجَلْدٌ - الْجَلِيدُ - پالا۔

الْجَلَاد - کھجور کے بڑے بڑے اور سخت درخت۔ بہت دودھ دینے

والی اونٹنیاں۔
الْجَلَاد - کوڑے سے مارنے والا۔

تلوار سے مارنے والا۔ ہر نماز دینے والا۔ کھال بیچنے والا۔

الْمُجَلَّدُ - وَالْمُجَلَّدُ - چڑے کا وہ ٹکڑا جس کو نوچ کرنے والی

اپنے منہ پر مارا کرتی تھی۔ کوڑا۔
ج۔ مُجَالِدٌ وَفَجَالِيدٌ - عَظْمٌ

(مُجَلَّدٌ) صرف کھال لگی ہوئی ہڈی۔

فَرَسٌ مُجَلَّدٌ - وہ گھوڑا جو کوڑے سے نہ ڈرے۔

أَجْلَوْدٌ - أَجْلَوْدًا - تیز چلنا۔
اللَّيْلُ - رات کا دراز ہونا یا

گزر جانا۔
بَهِمُ السَّيْرِ - تیزی کے ساتھ

چلتے رہنا۔
الْمَطَرُ - زمانہ بارش کے ختم کے

بعد بھی برستا رہنا۔
الْجُنْدِي - ج۔ مَنَاحِذٌ - چھوہندہ۔

الْجُنْدِي وَالْجَلَاذِي - پادری۔
گرجے کا خادم۔ کاری گر۔

ج۔ جَلَاذِي -

الْجَلَاذِي وَالْجَلَاذِي - موٹا مضبوط اونٹ۔

جَلَزَ (ض)، جَلَزًا - الوَاسُ - سر پر

پٹی باندھنا۔
الشَّيْءُ إِلَى الشَّيْءِ - کسی چیز کو

دوسری چیز سے ملانا۔ (وَجَلَزَ) -
السيكينة - چھری کا دستہ باندھنا۔
وَجَلَزَ الرَّجُلُ - جلدی چلنا۔ تیز چلنا۔

تَجَلَّزَ - لَلا مَر - کسی کام کے لیے تیار ہونا۔ مستعد ہونا۔
 جَلَوْنِ - بینیدی الامیر۔
 امیر کے سامنے آنے والے،
 چستی دکھانا۔
 جَلَزَ - الیسنان - بھالے کے نیچے کا گول حلقہ۔
 الجَلَّاسُ - کوڑے کے کنارے پر بندھا ہوا تسمہ۔ ج۔ جَلَّازُ۔
 الجَلَوْنِ - آمورفت میں چستی پھرتی۔
 الجَلَوَانِ - پولیس کا سپاہی۔ بادشاہ کے سامنے تیز تیز چلنے والا۔
 ج۔ جَلَّادِ - مَنَاقَہ۔
 الجَلَوْنِ - بڑے جسم والا۔ بہادر۔
 المَجْلُونِ - محکم۔ مضبوط۔
 کہتے ہیں۔ فلان مجلوس العمل فلاں کام میں مضبوط و مشاق ہے۔
 جَلَسَ (ض) جُلُوسًا و مَجْلَسًا۔
 بیٹھنا۔ صفت۔ (جَالِس)۔
 ج۔ جُلُوس و جُلَّاس۔
 جَالَسَهُ مَجْلَسًا۔ کسی کے سنگ ساتھ بیٹھنا۔
 جَلَسَ وَاَجْلَسَهُ۔ بٹھانا۔
 تَجَالَسُوا۔ فی المحاکم۔ عدالتوں میں بیٹھ کر آپس میں بحث کرنا۔
 اسْتَجْلَسَهُ۔ بیٹھنے کو کہنا۔
 المَجْلَسَہ۔ ایک بیٹھک۔
 المَجْلَسَہ۔ بیٹھنے والے کی ہیئت الجلس۔ بڑی سخت چٹان۔ بلند زمین۔
 جَمَلُ جَلَسَ۔ مضبوط اونٹ۔
 نَاقَةُ جَلَسَ۔ مضبوط اونٹنی۔
 شَہْدُ جَلَسَ۔ گاڑھا شہد۔
 الجَلِيسُ۔ ج۔ جَلَسًا و جُلَّاس۔
 (الجلس و الجلیس) ہم نشین۔

المَجْلَسَہ۔ بہت بیٹھنے والا۔
 المَجْلِسُ۔ بیٹھنے کی جگہ۔ بیٹھنے والے۔
 اصحاب۔ کچری۔ عدالت۔
 المَجْلَسَہ۔ بیٹھنے کی جگہ۔
 جَلَطَ - (ض) جَلَطًا۔ قسم کھانا۔
 جھوٹ بولنا۔
 الرَأْسُ۔ سر مونڈنا۔
 السَّيْفُ۔ تلوار سونٹنا۔
 الجَلْدُ۔ کھال اتارنا۔
 يَسْلَحُہ۔ بیٹ کرنا۔
 اِنْجَلَطَ۔ البعیر۔ اونٹ کا تیز چلنا۔
 الشَّيْءُ۔ چیز کا پرانا ہونا۔ گھسنا۔
 جَالَطَهُ۔ ایک کا دوسرے سے فریب مکر کرنا۔
 اَجْتَلَطَ۔ اچک لینا۔ جھپٹنا۔
 مَا فِي الْاَنَاءِ۔ پیالے میں جو کچھ ہے سب پی جانا۔ سب ڈکوس جانا۔
 المَجْلُطَہ۔ وہی کی تھوڑی مقدار۔ یا بستر خون۔
 امْرَأَةٌ جَلُوطٌ۔ بے حیا عورت۔
 بے شرم عورت۔
 جَلَعَ (ض) جَلْعًا۔ ہونٹوں کے نہ ملنے کی وجہ سے دانتوں کا کھلنا۔
 صفت (جَلَعَ وَاَجْلَعَ)۔
 مَوْنَتُ جَلِيعَةٍ و جَلْعَاءِ۔
 جَلَعَتَ (ض) جُلُوعًا۔ المِرَاةُ بے حیا ہونا۔ صفت (جَالِعٌ و جَالِعَةٌ)۔
 جَالِعٌ۔ القوم۔ لوگوں کا آپس میں جھگڑا کرنا۔ اور اول قول کہنا۔
 اِنْجَلَعَ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کا کھل جانا۔
 مکشف ہونا۔
 الجَالِعُ۔ مسافر۔ بے حیا۔
 الجَلْعَةُ۔ ہنسنے کے وقت دانت

کھٹنے کی جگہ۔
 کہتے ہیں۔ فلان لطیف المجلعة۔
 المَجْلَعَمَ۔ بے حیا۔
 اِجْلَعَتَ وَاَجْلَعَدَ۔ لیٹنا۔ بستر پر دراز ہونا۔
 المَجْلَعَدَ۔ سخت و مضبوط۔ الجَلَّادِ۔
 من الابل۔ سخت مضبوط۔
 ج۔ جَلَّادِ۔
 جَلَعَهُ (ض) جَلْعًا۔ بالسَّيْفِ۔
 تلوار سے ٹکڑے کرنا۔
 جَالَعَ۔ تلوار سے مقابلہ کرنا۔
 جَلَفَهُ (ض) جُلْفًا۔ گھرجنا۔
 کہتے ہیں۔ جَلَفَ الطَّيْنِ عَنِ الْحَجَرِ۔ اس نے مٹی کو پتھر سے کھرچ ڈالا۔
 السُّطْفَرُ۔ ناخن بڑے اکھڑنا۔
 ۵۔ بالسَّيْفِ۔ گوشت کا ٹکڑا تلوار سے کاٹ لینا۔
 ۵۔ الدَّهْرُ۔ زمانہ کا کسی کو تباہ کر دینا۔
 جَلَفَ (ض) جَلْفًا و جَلَّافَةً۔
 اچڑ ہونا۔ اکھڑ ہونا۔
 جَلَفَ۔ الویلُ اَمْوَالُہم نابود کرنا۔ تباہ کرنا۔
 تَجَلَّفَ۔ دہلا ہونا۔ کمزور ہونا۔
 اِجْتَلَفَ۔ بڑے اکھڑنا۔ بیخ کنی کرنا۔
 ۵۔ الدَّهْرُ۔ زمانہ کا کسی کو تباہ و برباد کرنا۔
 اِلْجَلْفَ۔ اکھڑ۔ اچڑ۔ بیوقوف۔ خالی مٹکا۔ برتن۔ سر جڑا کیا ہوا دھڑ۔
 روٹی کی کور۔
 ج۔ اجلاف۔ و جُلُوف۔
 اِلْجَلِيفَ۔ کھڑچا ہوا۔ اچڑ۔ اکھڑ۔ ظالم۔
 مَوْنَتُ جَلِيفَةٍ۔
 کہا جاتا ہے۔ و احصا بترہم جَلِيفَةً



عَظِيمَةً. یعنی ان کو سخت قحط
سالی لاتی ہوئی اور اس نے ان کو
کنگال کر دیا۔ ج۔ جَلَّأْتُ و
جَلَّفْتُ و جَلَّفْتُ۔
الْجَلَّأْتُ۔ طغیانیاں۔
الْجُلْفَةُ۔ چترے وغیرہ کی چھلین یا
تراشہ۔
الْجُلْفَةُ۔ خشک روٹی کا ٹکڑا۔
ج۔ جَلَّفْتُ۔
الْجُلْفَةُ وَالْجُلْفَةُ۔ من القلم
قلم کا تراشا ہوا حصہ۔ زبان قلم۔
الْجُلْفَةُ۔ مٹی۔ کیچڑ۔
الْمُجَلَّفُ۔ اطراف سے چھانٹا ہوا۔
وہ جس کا کچھ حصہ باقی ہو۔
جَلْفُطٌ وَجَلْفُطٌ۔ السَّفِينَةُ۔
کشتی کی درز بند کرنا۔ عوام قلفظ کا
لفظ استعمال کرتے ہیں۔
الْجُلْفَاطُ وَالْجُلْفَاظُ۔ کشتی کی
درز بند کرنے والا۔
جَلَّقَ۔ (رض) جَلَّقَا۔
الراس۔ سر مونڈنا۔
القوم بالمدحینق۔ پتھر پھینکنے
کی مشین سے دشمن پر حملہ کرنا۔
تَجَلَّقَ۔ بننے میں داڑھیں تک ظاہر
کر دینا۔
الْجَلَّاقَةُ۔ گوشت کا ٹکڑا
کہتے ہیں۔ رجلٌ جَلَّاقَةٌ۔ دُبلّا
سوکھا آدمی۔
الْجَوَالِقُ وَالْجَوَالِقُ۔ اون یا بالوں
کی گون۔
ج۔ جَوَالِقٌ وَجَوَالِقٌ۔
الْجَلِّقُ وَالْجَلِّقُ۔ دمشق یا اس کا غوطہ
داس کے آس پاس کا مرغزار و
سبزہ زار،
الْجَلِّقُ وَالْجَلِّقُ۔ بام مچلی سے ملتی

ہوئی مچلی۔
جَلَمَهُ (من) جَلَمًا وَاجْتَلَمَهُ۔ کاٹنا۔
الصوف۔ اون کا کرتنا۔
الجزوس۔ ہڈیوں پر سے گوشت
اتارنا۔
الْجَلَمُ وَالْجَلَمَانُ۔ اون کترنے کی
تینبی۔
آپ "جلمان" پر تشبیہ کا اعراب
بھی لگا سکتے ہیں اور مفرد کا بھی۔
جیسے شربت الجلمین و شربت
الجلمان۔
الْجَلَمُ۔ بکرا۔ بکری کا بچہ۔
ج۔ جَلَمَ۔
الْجَلَمُ۔ ایک شکاری پرندہ۔
الْجَلَمَةُ وَالْجَلَمَةُ۔ پوری
چیز۔ سب کی سب۔
کہتے ہیں۔ اخذت الشئ
بجملته۔ یعنی میں نے پوری چیز
لے لی۔
وهذه جملة الجذور۔ یہ مذہلوح
کا سارا گوشت ہے۔
الْجَلَامَةُ۔ کتری ہوئی اون۔
الْجَلَمُ۔ چودھویں رات کا چاند۔
الْجَلَمُ۔ ج۔ جَلَامِدٌ وَد الْجَلَامِدُ
ج۔ جَلَامِيدٌ۔ پتھر کی چٹان۔
رجلٌ جَلَمَدٌ۔ سخت مضبوط آدمی
ارضٌ جَلَمَدَةٌ۔ پتھریلی کنکریلی
زمین۔ اور اس بجیل کے بارے میں
کہتے ہیں جو کنجوس سمجھی جوس ہونے
کے باوجود کچھ دے جائے۔
رَشَحٌ أَوْ بَيْضٌ جَلَمَدًا۔
الْجَلَمَدُ وَالْجَلَمَدُ۔ اونٹوں کا بڑا گلہ۔
جَلَمَقٌ۔ القوس۔ کمان پر تانت
چڑھانا۔
الْجَلَمَانُ۔ وہ پٹھا جس سے تانت

بناتے ہیں۔
الْجَلَناسُ۔ گل اتار۔
الْجَلَنَجِينُ۔ گل قند۔
جَلَدَ۔ (ف) جَلَدًا۔ الشئ۔ کھولنا۔
دور کرنا۔
المرء۔ کسی کو باز رکھنا۔
الْعَمَامَةُ۔ پگڑی کو پیشانی سے اوپنی
کرنا۔
جَلَدَ (س) جَلَدًا۔ سر کے اگلے حصہ
کے بالوں کا اڑھانا۔
صفت۔ (أَجَلَهُ)
الْجَلَهَةُ۔ من الوادی۔ وادی کا
کنارہ۔ وادی کے سامنے والی جانب
ج۔ جَلَدَ۔
بیت مَجْلُوهٌ۔ وہ مکان جس میں
نہ دروازہ ہو، نہ کوئی اوٹ، اور
پرودہ۔
الْجَلَاهِقُ۔ مٹی کا غلہ یا سیسے کی گولی۔
غلیل۔
جَلَادُنْ جَلَادًا۔ ظاہر ہونا۔ واضح ہونا
عَنْ بَلَدٍ وَ مِنْهُ۔ اپنے شہر سے
نکلنا۔
الشئ ع۔ بلند ہونا۔
جَلَادُنْ جَلَادًا۔
الامر۔ کسی امر کو واضح کرنا۔ ظاہر
و آشکارا کرنا۔
الرجل عن بلدٍ۔ کسی کو اس کے
شہر و ملک سے نکالنا۔ جلا وطن کرنا۔
النحل۔ شہد نکالنے کے لیے دھواں
کر کے مکھیوں کو بھگانا۔
عنه السم۔ کسی کا غم زائل کرنا۔
دور کرنا۔
السيف۔ تلوار کو صیقل کرنا۔
البصر بالكل۔ سرمہ سے آنکھ کی
بینائی کو روشن کرنا۔

(— جَلَوَةٌ بِتَثْلِيثِ الْجِلْمِ
وَجَلَاءً وَاجْتَلَى)

الْعُرُوسُ عَلَى زَوْجِهَا. وَلَمِنْ
كَابَنَ وَسَنَكَارَكَ اسَ كَوِ اسَ كَمَ
خَاوَنَدَكَ بِاسِ بِشِشْ كَرْنَا.

جَلَّادَن) رَجُلِي. الزَّوْجُ عُدُوسَةٌ
هَدِيَّةٌ. شَبُّ زَفَافٍ مِثْلُ خَاوَنَدِ
كَابَنِي وَلَمِنْ كَوِ بِدِيَّةٍ.

جَلِي (س) جَلِي. سَرَكَمَ اَكَلَمَ
كَ بَالُونِ كَا اُرْجَانَا.

صَفَتُ: (اَجَلِي) مَوْنُثُ
جَلَوَاءَ.

جَبْمَةٌ جَلَوَاءَ. كَشَادَهْ بِشَانِي
جَلِي. فَلَانَا دَعْنِ فَلَانَا اَلَامَرِ.

كَمِي كِي مَصِيبَتِ كَوْرِفِ كَرْنَا.
جَلِي بِنَظَرِهْ. نَظَرُؤَالَا.

كَمَا جَاتَا هِي "جَلِي الْبَا سَمِي" بِعِنِ
بَارَنِي سَرَاوَنِچَا كَرَكَمَ شَكَارَكُو
دِيكَمَا.

عَنْ ضَمِيرِهْ. دَلْ كِي بَاتِ كِي
تَرْجَمَانِي كَرْنَا. مَا فِي الضَمِيرِ كَوِ ظَاهِرِ
كَرْنَا.

جَالِي. فَلَانَا بِالَا مَرِ. دُوسَرِي
كَ سَامَنِي كُوِي اَمَرِ ظَاهِرِ كَرْنَا. كَلَمِ
كَلَمَا كَرْنَا.

اَجَلِي. عَنْ بَلَدِهْ. اِنِ شَرِي
نَكَلْنَا.

اَجَلَا عَنْ بَلَدِهْ. كَمِي كَوِ اسَ كَمَ
شَرِي سَكَلْنَا.

الرَّجُلُ مَنْزِلَهْ. كَمِي شَخْصِ كَا
اِنِ گَهْرُ كُوِ خُوفِ كَمَ بَاعْثِ چُھوڑ
دِيَا.

كَمَا جَاتَا هِي "اَجَلُوا عَنْ الْقَتِيلِ"
وَهْ مَقْتُولِ كُوِ چُھوڑ بَھَا گَمَ.

تَجَلِي. تَجَلِيَا. الشَّيْءُ. چَرِيكَ اچھی طَرَحِ

ظَاهِرِ هُونَا.

اَلْمَكَانَ. گَهْرِ پَر چڑھ جَانَا.

الشَّيْءُ. كَمِي چَرِيكَ كُوِ گَرُونِ بَلَنَدِ
كَ دِيكَمَا.

تَجَالِي. الْقَوْمُ. هَرَايَكِ كَا حَالِ دُوسَرِي
پَر كَل جَانَا.

اِنْ جَلِي. ظَاهِرِ هُونَا.

كَتَمِي هِي "اِنْجَلِي اَلْحَقُّ عَنْ قَلْبِي"
مِيرِي دَلِ سِي غَمِ دُورِ هُو گَمَا.

اِنْجَلِي. الشَّيْءُ. دِيكَمَا.
اَلْعَمَامَةُ. پُگڑِي كُوِ بِشَانِي سِي

اُٹھَا.

النَّحْلَ. شَدَن كَالَنِي كَمِي لِي
دُھواں كَرْنَا.

اِسْتَجَلِي. الشَّيْءُ. ظَاهِرِ كَرَنِي كُوِ كَمَا.
اَلْعُدُوسُ. دَلَمِنْ كَا اَرَا سَتَهْ هُو كَر

خَاوَنَدِ سَامَنِي جَانَا.

اَجَلُوِي. اَجَلِيَا. الرَّجُلُ.
كَمِي كَا اِيكِ شَرِي سِي دُوسَرِي شَرِ

كُو جَانَا.

اَلْجَلَا. سَرَكَمَ بَالُونِ كَمَ گَرَنِي كِي اِبْتَدَا.
سَرَمِ. ظَهْرِ.

اِبْنِ جَلَا. كَلَمِي چَرِيكَ صَبَحِ. چَانَدِ.
اَلْجَلَاءُ. مَص. وَاضِحِ اَوْر كَلَا اَمَرِ.

كَتَمِي هِي "اَقَمْتُ جَلَاءَ يَوْمِي"
مِي نِي پُورِي دِنِ اَقَامَتِ كِي.

اَلْجَلَاءُ. سَرَمِ.
اَلْجَلَوَةُ. شَبُّ زَفَافِ مِثْلُ شُوْهَرِ كَا

اِنِ دَلَمِنْ كُوِ دِيَا هُو اَدِيهْ.

اَلْجَالِيَةُ. مَوْنُثُ. اَلْجَالِي.
وَهْ مَسَا فَر لُوكِ جَوِ اِنِ دِلِ كُوِ چُھوڑ

اَسِي هُونِ. ذَمِي لُوكِ. جَمَزِيهْ جَوِ
ذَمِيُونِ سِي لِيَا جَاتَا هِي اَوْر اَسِ
كَ اِسْتَعَالِ هَرِ قِسْمِ كَمَ خَرَاچِ كَمَ
لِي بِي هِي.

ج. جَوَالِ. مَفْرَدِ. جَالِ.

اَلْجَلِي. وَاضِحِ. مِثْلُ شَدَهْ.

مَوْنُثُ. جَلِيَّةُ.
عَبِيْنُ جَلِيَّةُ. دِيْدَهْ بِيْنَا.

جَلِيَّةُ. اَلَا مَرِ. مَعَالَمِ كِي مَنكُشْتِ
شَدَهْ حَقِيقَتِ. بِعِنِ خَبَرِ.

اَلْاَجَلِي. رُوشَنِ. وَاضِحِ. نُوْبَصُورَتِ
چَرِهْ وَاَلَا. وَهْ شَخْصِ جَسِ كَمَ سَرَكَمَ

اَكَلَمَ سِي بَالِ اُرْگَمِي هُونِ.
مَوْنُثُ. جَلَوَاءَ.

كَتَمِي هِي. فَعَلَنَهْ مِنْ اَجَلَاكِ
مِي نِي اَسِ كُوِ تَهَارِي وَجَرِ سِي كَمَا.

اِبْنِ اَجَلِي. صَبَحِ.
اَلْمَجَلِي. سَرَكَا اَكَلَمَ جَسِ سِي بَالِ گَر

گَمِي هُونِ. ج. مَجَالِ.
اَلْمَجْلُو. جَسِ كِي طَرَفِ دِيكَمَا هَا سِي.

جَلِي (دَنْ) جَلِيَا. اَلسَيْفُ. تَلَوَارِ
كُوِ صِيقَلِ كَرْنَا.

جَلِي. اَلَا مَرِ. كَمِي اَمَرِ كُوِ ظَاهِرِ كَرْنَا.
اَلْفَرَسُ. گَهْرُ سِي كَامِيْدَانِ مِي

اَكَمِي نَكَلِ جَانَا.

اَلْجَلِي. چَهْتِ كَارُوشَنَدَانِ.
اَلْمَجَلِي. مِيْدَانِ مِي اَكَمِي رَهَنِي وَاَلَا

اَلْجَلِيَانِ. كَشَفِ وَاَطْهَارِ.
جَمَدِ دِنِ. جَمُومًا.

اَلْمَاءُ. پَانِي كَا بَكْشَرَتِ جَمِجِ هُونَا.
اَلْعَظْمُ. پُڑِي كَا بَهْتِ پُرِ گُوشْتِ

هُونَا.

اَلْبَثْرُ. كَنُوسِ كَا زِيَادَهْ پَانِي وَاَلَا بَرُونَا
صَفَتِ. (جَمُومِ)

اَلْفِرَاقُ. فَرَاقِ كَا قَرِيبِ هُونَا.
اَلْقَوْمُ. لُوكُونِ كَا اَرَامِ پَانَا، اَوْر

زِيَادَهْ هُونَا.
د. جَمَا وَجَمَامًا وَجَمَامًا
وَجَمَامًا،



الکيل - لبالب بھر کرنا پنا۔
الماء - پانی کو جمع ہونے دینا۔
المکيال - پیمانہ کو چوٹی تک بھرنا۔
وَأَجْمَ وَأُجْمَ -
الفرس - گھوڑے کو قتل چھوڑ دینا۔
جَمَّ المکيال - پیمانہ کو چوٹی تک بھرنا۔

(وَجَمَّ)
النبث - روئیدگی کا بکثرت بڑھ
کمزور کو ڈھک لینا۔
صفت جَمِيم - جہ - آجَمَاء -
أَجَمَّ - الامر - حاضر ہونا، قریب آنا۔

الفراق - جدائی کا وقت قریب آنا۔
الماء - پانی کو جمع ہونے دینا۔
الفرس - گھوڑے کو سواری میں استعمال نہ کرنا۔ کو قتل چھوڑنا۔
اور اسی سے ہے - أَجْمَ نفسك
يَوْمًا او يَوْمَيْن - یعنی ایک دو دن جان کو آرام دو اور چلو پھرو نہیں۔

أَسْتَجَمَّ - الماء - پانی کا بکثرت جمع ہونا۔

الاس من - زمین کا نبات اگانا۔
البتو - کنویں کو پانی بھر جانے کے لیے چھوڑ دینا۔

کہتے ہیں - "انی لا استجمد قلبی بشئ من اللہو" یعنی میں اپنے دل کو کھیل کود سے ہلاؤں گا۔
الجَمَّ - مص - بڑی تعداد۔

کہتے ہیں - "جاء وادجما غفيرا وجَمَّ الغفیر وجَمَّ الغفيرة والجَمَّ الغفیر" یعنی شریف و رفیل سب ہی آئے اور بڑی تعداد میں آئے کہ کوئی بھی باقی

نہ رہا۔
الجَمَّ من الماء - پانی کا بڑا حصہ۔
جہ - جام و جُموم۔
الجمام - بتثلیث الجیم و الجمم
پیمانہ کے لبوں سے اوپر کا مپ۔
کہتے ہیں - "جام الفدح ماء"۔
پانی سے بھرا پیالہ۔

الجَمَّ - بڑی تعداد۔
الجَمَّة - بہت پانی والا کنواں۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔
کہا جاتا ہے - "استق من جملة البتو" زیادہ پانی والے کنویں سے پانی لو۔

الجَمَّة والجَمَّة - چیز کا بیشتر اور بہت سا حصہ۔
کہتے ہیں - "جاؤا فی جمعة کثیرة" وہ بڑی تعداد میں آئے۔
والجَمَّة - سر کے بالوں کی کثرت
لو سے نیچے تک کے بال۔
جہ - جُمم۔

الجمام والجمان - لبالب بھرا ہوا پیمانہ
الاجم - بے سینگ والا مینڈھا۔
مؤنث جَمَاء - جہ - جُم۔

بغیر نیزہ کے لڑنے والا۔
الحصن الاجم - بندی نہ رکھنے والا قلعہ۔

الجَمَاء - بھرا ہوا۔
کہا جاتا ہے - "امراء جماء العظام" بہت موٹی عورت۔
ارض جَمَاء - ہموار زمین۔

کہتے ہیں جاؤا وجماء الغفیر وجماء الغفيرة والجَمَاء الغفيرة وجماء غفيرة وجماء الغفیر الخ - یعنی سب کے سب آئے۔

المَجَمَّ والمَجَمَّ - سینہ۔
کہتے ہیں "هو رجب الجَمَّ" وہ فراخ سینہ اور فراخ دل ہے۔
الجمانی والمجتم - وہ شخص جس کے سر پر بہت بال ہوں۔
جَمَّی رس جَمَّ علیہ - کسی پر غصہ ہونا۔

تَجَمَّ فی ثیابہ - اپنے کپڑوں میں لپیٹنا۔
القوم قوم کا جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا۔
الجماء والجماء -
جمجم - جمجمة و تَجَمَّجَم۔
الکلام - کلام کو صاف نہ کہنا۔

کہا جاتا ہے - "تَجَمَّجَم عین الامر" وہ کام سے بچ گیا یا پیچھے ہٹ گیا۔
وَجَمَّجَم شینًا فی صدرہ - اس نے اپنے سینہ میں چھپاٹے رکھا اور اس کا پتہ نہ لگنے دیا۔

الجُمَّجُمَة - سر کی کھوپڑی۔ لکڑی کا پیالہ۔ زمین شور میں کھدا ہوا کنواں۔
جہ - جَمَاجِم۔

جَمَّج (ف) جَمَّحًا و جَمَّحًا و جَمَّوَحًا۔

الفرس - گھوڑے کا منہ زوری کرنا اور سوار کے قابو سے باہر نکلنا۔
نافرمان ہونا۔ عورت کا خاوند کو چھوڑ جانا۔ خود سر ہونا۔

صفت مذکر و مؤنث۔ (جامح) جہ۔ جَوَامِیہ۔

اور اسی سے ہے - "جمعت المرأة ذو جها" یعنی عورت تمناؤں کو چھوڑ کر اپنے میکہ جا بیٹھی۔

وَجَمَّ الرجل - آدمی کا خود سر ہونا۔ خود رائے ہونا۔

کہتے ہیں ”جَمَحَتِ الْمَفَازَةُ بِالْقَوْمِ“

بیابان نے قوم کو ہلاکی کے گھاٹ اتار

دیا۔ وجمع بفلان مراد کا۔ یعنی

وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچا۔

الْجُمُاح۔ لڑائی میں شکست خوردہ

لوگ۔ بے پھل والا تیر۔

ج۔ جَمَامِج و جَمَامِیج۔

فوس (جموح) سرکش اور منہ

زور گھوڑا۔

رجل جموح۔ خود سر آدمی۔

جَمَح (ن) جَمَحًا۔ تکبر کرنا۔

صفت۔ (جامح) ج۔ جَمَح و

(جَمُوح و جَمِیْن)۔

جَا مَحَنَةً۔ مقابلہ پر فخر کرنا۔

جَمَد (ن) جَمَدًا و جَمُودًا۔

الماء۔ پانی کا جم جانا۔

الدم۔ خون کا خشک ہونا۔

جمدت یدہ۔ بخیل ہونا۔

عینہ۔ آنکھ کے آنسو کا بند ہونا۔

صفت (جَمَاد و جَمُود و جَمِید)۔

العین۔ مژنٹ۔ (جمود)۔

أَجْمَد۔ بخیل ہونا۔ کم بھلائی والا ہونا۔

ماہ جمادی میں داخل ہونا۔

کہتے ہیں ”أَجْمَدُ حَقَّقَهُ عَلَيْهِ“۔

یعنی اس نے اپنا حق اس پر واجب ٹھہرایا

ثابت کیا۔

أَجْمَد و جَمَدہ۔ جانا۔

جَامِدہ جَامِدَةً۔ پڑوسی ہونا۔ پاس

پاس ہونا۔ قریب قریب ہونا۔

کہتے ہیں ”هُوَ جَامِدِي“۔ میرا اور

اس کا گھر پاس پاس ہیں۔ گھر سے

گھر ملا ہے۔

الْجَمَد و الْجَمَد۔ جما ہوا پانی۔ برف۔

(— والْجَمَد و الْجَمَد)۔

سخت و بلند زمین۔

الْجَمَاد۔ ج۔ جَمَد۔ زمین۔

سنة جَمَاد۔ بے بارش کا سال۔

ارض جَمَاد۔ وہ زمین جس پر

بارش نہ برسی ہو۔

ناقصة جَمَاد۔ سُست رفتار

اوستی۔

کما جاتا ہے ”فَلَانُ جَمَادُ الْكَفْتِ“

یعنی فلاں بخیل اور کنجوس ہے۔ و

الْجَمَاد۔ ج۔ جَمَادَات و الْجَمَاد

ج۔ جوامد۔ غیر جاندار شے۔ جیسے

پتھر وغیرہ۔ والفعل الْجَمَاد۔ وہ

فعل جس کی گردان نہیں ہوتی۔ جیسے

یس و عسی۔ و

جَمَاد لہ۔ مبنی برکسرہ۔ بخیل

کے حق میں بددعا ہے یعنی خدا کرے

وہ ہمیشہ اسی حال پر رہے۔

جَمَادِی۔ الْأَدْنٰی۔ وَالْأُخْرٰی۔

قمری مہینوں میں پانچواں اور چھٹا

مہینہ۔

ج۔ جَمَادِیَات۔ عین جَمَادِی۔

وہ آنکھ جو آنسو نہ ٹپکائے۔

جَمَر (ن) جَمَرًا و جَمَرًا و أَجَمَر

وَأَسْتَجَمَر۔ القوم علی امر۔

لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ جمع ہونا۔

جَمَر۔ چنگاری دینا۔

جمرا القوم علی امر۔ کسی امر

پر قوم کا جمع کرنا۔

جَمَر النخلۃ۔ درخت خرما کا

جَمَار کا ٹٹنا۔ (جَمَار دیکھیے،

اللحم۔ گوشت کو انگارے پر

رکھنا۔

الامْرُءُ الْقَوْم۔ کسی امر کا لوگوں

کو اکٹھے ہونے پر مجبور کرنا۔

المرأة شَعْرَهَا۔ عورت کا

اپنے بالوں کی چوٹی گوند کر پیچھے ڈالنا

أَجَمَر۔ تیز چلنا۔

اور اسی سے ہے ”اجمر بین

ید یدہ“۔ وہ اس کے ساتھ تیز

تیز چلا۔

الثوب۔ کپڑے کو دھونی دینا۔

الناس۔ آگ تیار کرنا۔

الامر القوم۔ کسی امر کا عام ہونا۔

المرأة۔ عورت کا چوٹی گوندھ کر

پیچھے ڈالنا۔

تَجَمَّر۔ الْجَبِشُ۔ فوج کا دشمن

کی سر زمین میں گھر جانا اور نہ لوٹ

سکنا۔

بالمجرۃ۔ انگلیٹھی سے دھونی دینا۔

القبائل۔ قبیلوں کا اکٹھا ہونا۔

أَجَمَرُوا أَسْتَجَمَر۔ بالمجرۃ۔

انگلیٹھی سے دھونی دینا۔

الجرۃ۔ الجمر۔ کا واحد۔ انگارہ

کنکری۔ وہ لوگ جو آپس میں ایک

دل ایک جی ہوں۔

کما جاتا ہے ”بنو فلان جمرۃ“

یعنی فلاں کی اولاد اتفاق و اتحاد کے

رشتہ میں جکڑی ہوئی ہے۔

جمر جَمَرَات۔

الجَمَار۔ جماعت۔ متفق لوگ۔

جَمَارِی و جَمَارِی۔ سب کے سب

کل۔

کہتے ہیں ”جاء القوم جَمَارِی“۔

یعنی قوم کے سب لوگ آئے۔

جاء القوم (جَمَارِی) سب کے

سب آئے۔

الْجَمَّاس۔ وَالْجَمَّاس۔ درخت خرما

کا گوند جو چرنی سے مشابہ ہوتا ہے۔

اس کا واحد جَمَّار و جَمَّارۃ ہے۔

ج۔ جَمَّارَات و جَمَّارَات۔

الجمیر۔ قوم کے اکٹھے ہونے کی جگہ۔

ابن جمیر۔ تیرہ و تاریک رات
جمیر الشعر۔ بالوں کی گندھی
ہوئی ہوئی۔
الجمیوة۔ بالوں کی زلف۔
الجمرة والجمرة۔ انگلیٹی عودسوز
ج۔ حجامر۔ حافر (جمیر)
و مجمر، سخت گھر۔
جمز (ض) جمزاً۔ تیز دوڑنا۔
صفت۔ (جمناس) جمزہ۔
کسی سے تسخر اور مٹھا کرنا۔
الجمزی۔ تیز چال۔ دُکلی۔
کہتے ہیں "بعد والجمزی" وہ
تیز دوڑتا ہے۔ حناس جمزی
دُکلی چلنے والا گدھا۔
الجمزة۔ وہ پہلی جس میں دانہ ہوتا ہے
ج۔ جمز۔
الجمیز والجمیز۔ گولر کا درخت
واحد۔ جمیزہ۔
جمس و جمس (دک) جموسا۔
السمن۔ گھی کا جم جانا۔
الجامس۔ فار۔ نبات جامس۔
مرجھانی ہوئی گھاس۔
دم (جمیس) خشک خون۔
الجمست۔ ایک قسم کا قیمتی پتھر۔
الجاموس۔ بھینس۔
ج۔ جوامیس۔
جمش۔ (د ن ص) جمشاً۔
الرأس۔ سرمونڈنا۔
اور اسی سے ہے —
مکان (جمیش) روئیدگی سے
خالی جگہ۔
جمش الناقہ۔ انگلیوں کے
پوروں سے اونٹنی کو دوہنا۔
جمشہ۔ چٹکی لینا۔ کھیل کھیلنا۔
الجمش۔ مص۔ آہستہ آواز

الجموش والجمیش۔ بال گرانے
کی مرکب دوا۔
جمع (د ن) جمعا۔ المتفرق۔
جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔
کہتے ہیں "جمعت الجمعة"
یعنی جمع کی نماز کھڑی کی گئی۔
جمع کرنا تشدید مبالغہ کے لیے
ہے۔ —
المسلم۔ جمع کی نماز میں شریک
ہونا۔
جامعه مجامعة و جماعاً۔
علی کذا۔ کسی بات پر اتفاق کرنا
موافقت کرنا۔
جامعہا۔ عورت سے ہم بستری
کرنا۔
آجمع۔ القوم علی کذا۔ اتفاق کرنا
ماکان متفرقاً۔ متفرق اور
بکھری چیز کو یکجا کرنا۔
الامر و علی الامر۔ پختہ ارادہ
کرنا۔
الابل۔ اونٹوں کو اکٹھے ہانکنا۔
آجمع۔ الغلام۔ لڑکے جوان و
قوی ہونا۔ طاقت ور ہونا۔
عورتوں کے لیے یہ مستعمل نہیں۔
(د ن) تجمع۔ القوم۔
قوم کا یکجا ہونا۔ اکٹھا ہونا۔
الشیء المتفرق۔ متفرق اور
بکھری چیز کا اکٹھا کرنا۔
الجمع۔ الشیء۔ چیز کے اجزاء
یا افراد کا یکجا جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا۔
استجمع۔ لہ الامر۔ کام کا کسی
کی منشاء کے مطابق تکمیل پانا۔
القوم۔ پوری قوم کا چلا جانا۔
البقل۔ سبزی ترکاری کا خشک
ہونا۔

الفرس جریاً۔ گھوڑے کا پوری
طاقت سے دوڑنا۔
الجمع۔ مص۔ لوگوں کی جماعت۔
ج۔ جموع۔ یوم الجمع۔
قیامت کا دن۔
جمع۔ الکف۔ مٹھی۔
کہتے ہیں "ضربتہ جمع کفی"۔
میں نے اس کو مٹکے سے مارا۔ مٹھی بھر
چیز۔ ج۔ آجماع۔
الجمعة۔ ہفتہ۔
کہتے ہیں "استأجر الاحبیر
مجامعة" یعنی اس نے مزدور کو
ہفتہ واری پر رکھا۔ جس طرح
مشاہرۃ۔ مانانہ کے معنی میں
آتا ہے۔ اجتماع۔ دوستی۔
جمعة من تیر۔ مٹھی بھر بھجور۔
(د والجمعة) ہفتہ کا
ساتواں دن۔ ج۔ جمع و
جمعات۔
الجماعة۔ آدمیوں کا گروہ۔
ج۔ جماعات۔
الجماعات والجماعات۔ چنگی
وغیرہ کا جبر۔
الجماع۔ مص۔ جماع الشیء۔ کسی چیز
کی جمع۔
کہتے ہیں جماع الخبایہ الخبیۃ۔
یعنی خبایہ کی جمع خبیۃ۔ آتی
ہے۔
والخمیر جماع الاثم۔ یعنی شراب
ہر قسم کے گناہوں کو اپنے اندر جمع
رکھتی ہے۔
قدس جماع۔ بڑی دیگ۔
الجماع۔ فا۔ جامع مسجد ج۔ جماع۔
الکلام الجامع۔ وہ کلام جس
کے الفاظ کم ہوں مگر مطلب بہت ہو



ج - جَوَامِع -

اليومُ الجَامِع - جمع کا دن۔

قَدْ رُجَا مَع - دیگر۔

أَبُو جَا مَع - دسترخوان کی کنیت

الجَامِعَةُ - مؤنث الجَا مَع - تعلق طوق۔

قَدْ رُجَا مَعَةُ - بڑی دیگر۔

الْجَمِيع - لوگوں کی جماعت۔

جمع کی ہوئی شے - لشکر - تاکید کے

موقع پر کہا جاتا ہے۔

جَا ذَا جَمِيعَهُمْ - وہ سب کے

سب آئے۔

سراشی جمیع - ٹھیک اور پکی رائے

الْجَمِيعَةُ - اجتماع - ج - جَمَاع -

آ جَم - یہ الفاظ تاکید میں سے

ہے اور ہر اس شے کی تاکید کے

لیے آتا ہے جس کا افتراق جَسَا یا

حُكْم جَانِز ہو۔

مثلاً کہتے ہیں: جَا ذَا أَجْمَعِهِمْ و

يَا أَجْمَعِهِمْ دِيَا أَجْمَعِهِمْ - یعنی وہ

سب کے سب آگئے۔

مؤنث جمعاء - ج - أَجْمَعُونَ -

الْمُجْتَمِع - فا - کہتے ہیں۔

رجلٌ مجتمِع - جوان۔

ومشي مجتمعا - یعنی وہ بدن کو

سنہالے ہوئے پوری طاقت سے

تیز تیز چلا۔

لَجَمْع - جمع ہونے یا جمع کرنے کی جگہ

اکاڈمی۔

کہتے ہیں: أَخَذْتُ مَحَبَّتَهُ بِمَجَامِعِ

قلبي - یعنی اس کی محبت میرے

دل کے ریشہ ریشہ میں پیوست

ہو گئی۔

ارض (جَمْعَةٌ و مُجْمِعَةٌ و

مُجْمِعَةٌ - وہ جگہ جس میں قافلہ اکٹھا

ہو جائے اور بھٹکنے کے خوف سے

لوگ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں

امْرُؤٌ مُجْمِع - متفق فیہ امر۔

امْرُؤٌ مُجْمِع - قطعی معاملہ۔

الْمَجْمُوع - مفع - وہ کتاب جس میں

مختلف چیزیں جمع کی گئی ہوں۔ مثلاً

اشعار و قصص وغیرہ۔

ج - مَجَامِيع - خویوں کے نزدیک

اس کا اطلاق جمع پر ہوتا ہے۔

الْجَا مِکِیَّة - ج - جَا مِکِیَات و

(الْجَوَامِک) ج - جَوَامِک -

سول اور فوج کی تنخواہ۔

جَمَل (ن) جَمَلًا - الشَّيْءُ -

جمع کرنا۔ (— وَا جَمَل)

الشَّحْم - چربی پگھلانا۔

جَمَل (دک) جَمَلًا - خوش صورت

خوش سیرت ہونا۔ صفت (جمیل)

مؤنث - جَمِیلَةٌ -

جَمَلٌ - خوبصورت بنانا۔

جَمَل الشَّحْم - چربی پگھلانا۔

الجیش - فوج کو دیر تک روکے

رکھنا۔

جَا مَلَه - خوش معاملگی سے پیش آنا۔

تواضع کرنا۔

أَجَمَل الشَّيْء - جمع کرنا۔ بطور اجمال

ذکر کرنا۔

کہتے ہیں: أَجَمَلُ الْحَسَاب و

الْکَلَام ثُمَّ فَضْلُهُ و بَيِّنُهُ - یعنی

اس نے پہلے حساب و کلام کو مجملاً

بیان کیا۔ پھر اس کی تفصیل کی۔

الشَّيْء - خوب صورت بنانا۔ زیادہ

کرنا۔

الشَّحْم - چربی پگھلانا۔

فِي الْعَمَل - کام کو خوش اسلوبی

سے انجام دینا۔

فِي الْطَلَب - طلب میں میانہ روی

سے کام لینا۔

الْقَوْم - لوگوں کے پاس اونٹوں کی

کثرت ہونا۔

تَجَمَّل - آراستہ ہونا۔ خوبصورت

ہونا۔ مصائب زمانہ پر صبر کرنا اور

ذلت ظاہر نہ ہونے دینا۔ حیاء کو نہ

چھوڑنا۔ اور بری جزع فزع سے

دامن کو بچائے رکھنا۔ پھسلی ہوئی

چربی کھانا۔

فِي الْکَلَام - لطف و مہربانی سے

گفتگو کرنا۔

اسْتَجَمَل - الْبَعِير - اونٹ کا

جوان ہونا۔

الشَّيْء - کسی شے کو خوبصورت

سمجھنا۔

الْجَمَل - اونٹ - ج - جَمَال -

وَأَجْمَال و جُمُل و جَمَالَة -

بتثلیث الجیم - وجہ - جمالات -

بتثلیث الجیم - و جَمَائِل -

جمل کا اطلاق اونٹنی پر شاذ و نادر ہوتا

ہے۔

مَثَلًا کہتے ہیں: شَرَبْتُ لَبَن

جَمَلِي - میں نے اپنی اونٹنی کا دودھ

پیا۔

جَمَل الْيَهُود - گرگٹ۔

جَمَل الْمَاء - لمبی چونچ والا ایک

آبی پرندہ۔

کہا جاتا ہے: اتَّخَذَ اللَّيْلُ جَمَلًا -

یعنی ساری رات چلتا رہا۔

الْجَمَل وَالْجُمُل وَالْجَمَل

وَالْجُمُل وَالْجَمَالَة - موٹی رسی۔

حَسَاب الْجُمُل - حروف ابجد کا

حساب جو اکثر تاریخیں نکالنے میں

شاعر شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔

اس کو حساب الابدیہ بھی کہتے ہیں۔
 الْجَامِل - فا۔ اونٹوں کا ریوڑ مع ان کے چرواہوں کے۔
 الْبَنْت - اونٹوں کا مالک۔
 الْجَمَال - اونٹ کا مالک یا ساربان۔
 جہ۔ جَمَالَة
 الْجَمَال - خوبصورت یا خوبصورت سے زیادہ خوبصورت۔
 الْجَمَال - حسن۔
 کہتے ہیں "جمالک ان لا تفعل کذا" یعنی تمہارے لیے یہی زیبا ہے کہ ایسا نہ کرو۔
 الْجُمْلَة - مجموعہ۔ وہ کلام جو مسند اور مسند الیہ سے مرکب ہو۔
 جہ۔ جُمْل
 الْجُمْل - لوگوں کا گروہ۔
 الْجَمِیل - احسان - نیکی - پگھلی ہوئی چربی۔
 الْجَمَلَاء - حسین عورت اس کے لیے افعال کا صیغہ نہیں آتا۔ جس طرح دیمہ ہطلاء میں اہطل کا صیغہ نہیں)
 الْجَمَان - موتی۔ واحد۔ جَمَانَة۔
 جَمَهْر - جَمَهْرَة - الشیء جمع کرنا۔ اکثر حصہ لینا۔
 علیہ الخبر۔ تھوڑی سی خبر دینا اور مقصود کو پوشیدہ رکھنا۔
 (— و تَجْمَهْر)
 الْقَوْم - اکٹھا ہونا۔
 "کما جاتاہ" تجمہر علینا
 اس نے ہماری حقارت کر کے ہم پر زیادتی کی۔
 الْجُمُھُوس - بہت ریت تہ بہ تہ قوم کے شرفاء اور ذمی مرتبہ لوگ لوگوں کا گروہ۔ چیز کا اکثر حصہ۔



جہ۔ جَمَاہیر۔
 الْجُمُھُورِی - جمہور کی طرف منسوب نشر اور شراب۔
 الْجُمُھُورِیَّة - وہ قوم یا ملک جس کا صدر ایک مقررہ مدت کے لیے عام مخلوق کی رائے سے چنا گیا ہو ری پبلک۔
 الْمُجْمَعَات - ایام جاہلیت کے سات چیدہ فصائد جن کا مرتبہ سبع تعلقات کے بعد شمار ہوتا ہے۔
 الْجَمَا وَالْجَمَا - ابھرا ہوا پتھر۔ جسم کا اٹھا ہوا حصہ۔ جیسے پستان۔
 جَمَی - (ض) جَمَیَا - المَاء۔ پانی کا بہت ہونا۔
 تَجَمَّی - الْقَوْم - لوگوں کا اکٹھا ہونا۔
 جَمَاءُ وَجَمَاءُ وَجَمَاءَة - الشیء چیز کا حجم۔ جسم۔
 جَمَّ - (ن) جَمَّ وَجُمُؤَا - اللیل الشیء وعلیہ۔ ڈھانپنا۔
 چھپانا۔ (ض) جَمَّ وَجُمُؤَا - اللیل۔ رات کا تاریک ہونا۔
 (ض) جَمَّ - الجنین فی الرحمہ بچہ کا رحم میں چھپ جانا۔
 جَمَّ (ن) جَمَّ وَجُمُؤَا - پاگل و دیوانہ ہونا۔ صفت (مجنون)۔
 جہ۔ مَجَانِن - عنہ۔ چھپنا۔
 الْأَرْض - زمین کا پھول اگانا۔
 الْبَنْت - سبزہ کا دراز اور گنجان ہونا۔
 الذباب۔ مکھیوں کا بہت بھنبھانا۔
 کہا جاتا ہے "جَمَّ الذباب بالروح" سبزہ کو دیکھ کر مکھیاں

مستی سے بھنبھنا رہی ہیں۔
 أَجَنَّ - عنہ۔ کسی سے چھپنا۔ پوشیدہ ہونا۔ أَجَنَّهُ اللَّیْل - رات کا کسی کو چھپانا۔ ڈھانپ لینا۔
 أَجَبَّ الْمِیَّت - مردہ کو کفنانا دفنانا۔
 (أَجَنَّهُ وَجَنَّتْ) دیوانہ بنانا۔
 تَجَنَّنَ وَاسْتَجَنَّ - مجنون ہونا۔
 تَجَانَّ وَتَجَانَّنَ - بتکلف دیوانہ بننا۔
 أَجَتَنَّ الشیء - چھپانا۔
 (— وَاسْتَجَنَّ) - چھپنا۔
 وَاسْتَجَنَّ فَلَا تَأ - کسی کو کھیل اور طرب کی طرف بلانا۔
 مَا أَجَنَّهُ - وہ کس قدر مجنون ہے فعل تعجب ہے مگر شاذ ہے۔ کیونکہ یہ مفعول کے معنی میں ہے اور فعل تعجب فاعلی معنی دیتا ہے۔
 الْجِنَّ وَالْجِنَّة - جن۔ پری۔ دیو۔
 واحد جِنَّی - مَوْت جِنَّیَّة۔
 الْجِنَّة - جنون۔ دیوانگی۔
 الْجِنَّة وَالْجِنُّ مِنَ الشَّبَاب - عنفوان جوانی۔ آغاز شباب۔
 مِنَ الْبَنْت - پودہ کی کلی۔ پھول۔
 جِنُّ اللَّیْل - رات کی تاریکی۔
 جِنُّ النَّاسِ - لوگوں کی بڑی جماعت کہتے ہیں "لا جِنُّ بَھْطُ الْأَمْرِ" یعنی اس امر میں کوئی پوشیدگی نہیں۔
 الْجَبَات - فا۔ جن کا اسم جمع۔
 جہ۔ جَبَات -
 الْجَبَّة - درختوں سے ہرا بھرا باغ۔
 باغ ارمنی ہو یا ساوی۔
 جہ۔ چنان و جَنَات -
 الْجَبَّة - پردہ۔ جہ۔ جُنَن -
 (— وَالْمَجَنَّن وَالْمَجَنَّة) -

ہتھیاروں سے بچاؤ کی چیز۔ ڈھال
جر۔ مَجَانٌ۔

کہتے ہیں: "قَلْبٌ مَجْتَنٌ" یعنی
اس نے حیا و شرم کو بالائے طاق
رکھا اور خود رائے ہو گیا۔

وَقَلْبٌ لَهُ ظَهْرٌ أَلْمَجَنُّ۔ اس
نے اس کی دوستی چھوڑ کر دشمنی اختیار
کر لی۔

الْمَجَنُّ۔ قبر۔ میت۔ کفن۔
جر۔ اَجْتَانٌ۔

الْجُنَانُ وَالْجُنَانَةُ۔ ڈھال۔

الْجُنَانُ۔ دل۔ رات یا اس کی سخت
تاریکی۔ ایک مخفی امر۔

من کل شیء۔ ہر شے کا جو۔
جر۔ اَجْنَانٌ۔

الْجُنُونُ وَالْجُنُنُ وَالْجُنَّةُ۔ دیوانگی۔
الْجِنِينُ۔ ہر پوشیدہ شے۔ قبر۔ مدفون۔

بچہ جب تک رحم میں رہے۔
جر۔ اَجْنَّةٌ وَ اَجْنُنٌ۔

الْمَجْنَّةُ۔ جنون والی زمین۔ جنون۔
کہتے ہیں: "بہ مَجْنَّةٌ" اس میں

دیوانگی ہے۔ چھپنے کی جگہ۔
جینی (س) جَتَاءٌ۔ کبڑا ہونا۔

صفت (اَجْتَاءٌ)۔ مؤنث
جَتَاءٌ۔

جَتَاءٌ (ف) جُنُوءٌ وَ اَجْتَاءٌ۔
اَجْتَاءٌ وَ جَانَاءٌ فَجَانَاءٌ ۞

وَ اَجْتَنَاءٌ وَ تَجَانَاءٌ تَجَانُوءٌ
علیہ کسی کو مارے بچانے کے

لیے اس پر اوندھا ہو جانا۔
جَنَبَهُ (ن) جَنْبًا۔ دفع کرنا۔

ہٹانا۔ دور کرنا۔ پہلو پر مارنا۔
کہتے ہیں: "خَوْبَهُ فَجَنَبَهُ" اس

نے اس کے پہلو پر مارا۔
جَنَبَهُ الشَّيْءُ کسی سے کوئی چیز

دور کرنا۔

(جَنْبًا وَ مَجْنَبًا)۔

الْبَعِيرُ۔ اونٹ کو کوتل لے جانا۔
صفت مفعولی (جَنِبٌ وَ مَجْنَبٌ

وَ مَجْنُوبٌ)۔ مؤنث جنبیہ۔
کہتے ہیں: "فَوْسٌ جَنِيبٌ وَ حِيلٌ

جَنَابٌ"۔ (س) جنوَبًا،
الريحُ۔ جنوبی ہوا کا چلنا۔

جَنَبٌ (ن) جَنْبًا وَ جَنِبٌ (س) جَنْبًا۔
الْيَمُ۔ کسی کی طرف مائل ہونا۔

مشتاق اور بے چین ہونا۔
جَنِبٌ (ن) س۔ جن جَنَابَةٌ۔

الرجلُ۔ ناپاک ہونا۔
جَنِبٌ۔ درو پہلو میں مبتلا ہونا۔ ہونیا

ہونا۔ صفت (مَجْنُوبٌ)
(س) وَ اَجْنَبٌ وَ اُجْنَبٌ،

القوم۔ جنوبی ہوا لگنا۔
جَنَبَهُ وَ تَجَنَّبَهُ وَ تَجَانَبَهُ

وَ اَجْتَنَبَهُ۔ درو ہونا۔
جَنَبَهُ الشَّيْءُ کسی سے کوئی چیز

دور کرنا۔
جَانَبَهُ۔ پہلو میں چلنا۔

اَجْنَبَهُ۔ دور کرنا۔
اَجْنَبَ الرجلُ کسی کا دور ہونا۔

اِسْتَجْنَبَ۔ جنب ہونا۔ ناپاک ہونا۔
الْجَنْبُ۔ مص۔ جر۔ اَجْتَابَ۔

وَجُنُوبٌ۔ پہلو۔ طرف۔ جانب
کہتے ہیں: "قَعْدَتُ اِلَى جَنْبِ

فُلَانٍ وَ اِلَى جَانِبِهِ وَ جَنَابِهِ"
میں فلاں کے پہلو میں یا اس کی جانب

میں بیٹھا۔
جَارُ الْجَنْبِ۔ قریبی ہمسایہ۔

ذَاتُ الْجَنْبِ۔ ہونیا۔
الْجَنْبُ۔ مص۔ کچھ لنگڑا ہیں۔

الْجَنْبُ۔ نافرمان۔ مسافر۔ اجنبی

ناپاک۔ جُنبی۔ واحد شنیہ، جمع۔
مذکر مؤنث۔ سب کے لیے یہی

مستعمل ہوتا ہے۔
الجاسر الْجَنْبُ۔ اجنبی ہمسایہ۔

الْجَنْبُ۔ گوشہ نشین۔ کنارہ کش۔
اجنبی مسافر۔

الْجَنْبَةُ۔ گوشہ نشینی۔ جانب۔
الْجَنْبَةُ۔ من النبات۔ ہر وہ پودا

جو سبزی سے بڑا اور درخت سے
چھوٹا ہو۔

جر۔ جُنْبٌ۔ جَنْبَتَا الْاَلْفِ وَ
جَنْبَتَا وَ جَنْبَتَا ۞ تاک کے

دونوں طرف۔
الْجُنْبَةُ۔ وہ چیز جس سے بچا جائے۔

الْجَانِبُ۔ فا۔ جو مصلح و فرمانبردار
نہ ہو۔ مسافر۔ وہ گھوڑا جس کے

پاؤں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ ہو
جر۔ جُنَابٌ۔ انسان کا پہلو۔

گوشہ۔ جانب۔ جر۔ جَوَانِبُ۔
کہا جاتا ہے: "هُوَ كَيْنُ الْجَانِبِ"

وہ تربیت پذیر ہے۔ مان لینے
والا ہے۔

هُوَ سَرِيقُ الْجَانِبِ۔ وہ لطیف
ہے۔

الْجَنَابُ۔ صحن۔ گوشہ۔ جو محلہ قوم کے
قریب ہو۔

کہتے ہیں: "اَخْصَبَ جَنَابُ الْقَوْمِ"
قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔

فُلَانٌ خَصِيبُ الْجَنَابِ اَوْ
جَدِيبَةٍ۔ فلاں سرسبز ہے یا غوطہ زد

ہے۔ جر۔ اَجْنِبَهُ۔
الْجَنَابُ۔ جانب۔ کا مصدر۔

کہتے ہیں: "فَوْسٌ طَوَعَ الْجَنَابِ"
ملا رام ہونے والا گھوڑا۔

اَلْجُنُوبُ۔ دکھن۔ وکھنی ہوا۔ جر۔



جَنَائِبُ -

الْجَنَائِبُ - نمونہ کا بیمار - ہر مطیع و فرمانبردار -

الْجَنَائِبَةُ - کوتل گھوڑا -

الْجُنَّابُ - پہلو میں چلنے والا سناختی -

الْأَجْنَبُ - ج - آجائب - نافرمان -

الاجنب والاجنبی - مسافر -

الْمَجْنَبُ - بہت خیر ہوا شر -

کتنے ہیں "إِن عِنْدَنَا خَيْرًا"

مجببنا وشرنا مجببنا ہمارے

نزدیک بہت خیر اور بہت شر ہے

الْمُجْنَبُ - پرودہ - ڈھال -

الْمُجْنِبَةُ - فوج کا ہراول -

الْمُجَنَّبَتَانِ - من الجیش - فوج کا

دایاں اور بائیاں بازو -

تَجَنَّثَ - الرجلُ - غیر قوم میں سے

ہونے کا دعویٰ کرنا -

علیہ کسی سے محبت کرنا - مہربانی

وشفقت کرنا -

الطائر - پرند کا بازو پھیلا کر

بیٹھنا -

الْجُنْجِي - عمدہ لوہا - تلوار -

ج - جُنَيْتَةُ -

جَنَحَ (ف ن ض) جُنُوحًا -

الیہ - مائل ہونا -

السَّفِينَةُ - کشتی کا پتلے پانی میں

پہنچ کر زمین سے لگ جانا -

الذَّيْلُ - رات کا آجانا -

(د ن) جَنَحًا -

الطائر - پرندہ کے بازو پر

مارنا -

جَنَحَهُ - بازو بنانا -

الرجل - کسی کی طرف گناہ کی

نسبت کرنا -

أَجْنَحَ - وَاجْتَنَحَ - وَاسْتَجْنَحَ

الیہ - مائل ہونا -

أَجْنَحَهُ وَاسْتَجْنَحَهُ - جھکانا مائل کرنا -

تَجَنَّحَ وَاجْتَنَحَ - ایک پہلو پر جھکنا -

الْجَنُحُ - کنارہ - پناہ -

الْجَنُحُ وَالْجَنُحُ - من الليل -

رات کا ایک حصہ -

جَنَحَ الطريق - راستہ کی

ایک جانب -

الْجَنَاح - پرند کا بازو -

من الانسان - انسان کا ہاتھ -

بغل - بازو اور پہلو - پناہ -

اور اسی سے ہے "انا فی جناح

فلان" میں فلاں کے سایہ

عاطفت میں ہوں - کنارہ - چیز کا

ایک حصہ -

ج - أَجْنَحَ وَاجْنَحَةَ -

کتنے ہیں - "رکبوا جناحی

الطائر" یعنی وہ اپنے وطن سے

بے وطن ہوئے - رکب جناحی

النعامة - اس نے اس معاملہ

میں بڑی کوشش اور عجلت سے

کام لیا -

وهو مقصوص الجناح - وہ

عاجز وناکار ہے -

الْجَنَاح - گناہ - اور اسی سے ہے

لَا جَنَاحَ عَلَيْكَ - تمہارا کوئی گناہ

نہیں - چیز کا ایک حصہ -

الْجَانِح - فا - جانب -

ج - جَوَانِح -

الجوانح - سیلیاں -

واحد - الْجَانِحَةُ -

جَنَدَ - الْجُنُودُ - فوج بھرتی کرنا -

کتنے ہیں - "جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ"

جمع شدہ لشکر -

تَجَنَّدَ - فوجی سپاہی ہونا - لشکر

میا کرنا -

للامر - کسی کام کے لیے فارغ ہونا -

الْجُنْدُ - لشکر - فوج -

ج - أَجْنَادُ - وَجُنُودُ -

واحد (جُنْدِي) -

الْجُنْدُ - شر - ج - أَجْنَادُ

اجناد الشام - دمشق - حمص -

قنسرین - اردن - فلسطین

الْجَنْدُ - سخت زمین - مٹی سے

مشابہ پتھر -

الْجَنْدُ اس - محافظ فوج - باڈی

گھارٹ - ج - جَنْدِ اس -

جَنْدِ اس - الكتاب - کتاب کے

مٹے ہوئے حصہ پر قلم پھیر کر حروف کو

ابھارنا - روشن کرنا -

الْجُنْدُبُ - وَالْجُنْدُبُ - ایک

قسم کی ٹڈی - عام لوگ اس کو

قبوط کہتے ہیں - ج - جُنَادِبُ -

جَنْدَلَه - پھپھڑاند

الْجَنْدَلُ - بڑی چٹان -

واحد - جَنْدَلَةٌ - ج - جَنْدَاوِلُ -

جَنْزَه - دض، جَنْزَا - چھپانا - جمع کرنا -

جَنْزَر - مرکب تابوت میں رکھا جانا -

جَنْزَر - المیت - میت کو تابوت

میں رکھنا -

الْجَنَازَةُ - وَالْجَنَازَةُ - میت -

میت کا تابوت - میت کے دفن

میں شریک ہونے والے لوگ -

مجلس ماتم - شراب کی مشک -

ج - جَنَازِيْزُ -

الْجَنَازِيْزُ - مردوں کے آگے آگے

پڑھنے والا -

الْجَنْزَا سَا وَالْجَنْزُوْزُ - تانے کا

ج

زنگار۔
 الْجَنْزِيرُ زنجیر۔
 جَنْسٌ (ن) جَنْسًا۔ التَّمْرُ۔ سب
 کھجوروں کا پک جانا۔
 جَنْسٌ (ن) جَنْسًا۔ الماءُ وغوہ۔
 پانی کا جم جانا۔
 جَنْسُهُ۔ بدہ۔ اس نے اس کو اس
 جیسا بنا دیا۔
 جَانَسَهُ۔ جَانَسًا وَمُجَانَسَةً۔
 مشابہ ہونا۔ ہم جنس ہونا۔
 اور اسی سے ہے "فلان مجانس
 البہائم"۔ فلاں چوپاؤں کے
 مشابہ ہے۔ یعنی ہائم کی طرح عقل و
 تیز نہیں رکھتا۔
 تَجَانَسًا۔ یا ہم ہم جنس ہونا۔
 اور اسی سے ہے "وَمَعَ التَّجَانُسِ
 التَّانُسُ"۔ یعنی ہم جنس ہونے سے
 آپس میں انسیت پیدا ہوتی ہے۔
 الْجَنْسُ۔ مختلف انواع پر صادق آنے
 والی ماہیت جیسے حیوانیت، کہ وہ
 انسان اور گھوڑے کے لیے
 جنس ہے۔ ج۔ أَجْنَس۔
 الْجَنْسُ۔ جما ہوا پانی۔
 الْجَنْسُ۔ اپنی قوم میں شریف۔
 اپنی جنس میں اصل۔
 الْجَنْسِيَّةُ۔ جنس کی حالت یا ماہیت۔
 الْجَنْسُ۔ علم بدیع کی اصطلاح میں دو
 کلموں کا ٹکڑا یا بعضاً مشابہ ہونا۔
 جَنْشٌ (ن) جَنْشًا۔ الیہ۔ کودنا
 متوجہ ہونا۔
 منہ۔ کسی سے گھرا نا۔
 جَنْشٌ (ن) جَنْشًا۔
 المکان۔ کسی جگہ کا خشک ہونا۔
 قوط زدہ ہونا۔
 جَنْشٌ۔ خوف سے بھاگنا۔

بَصْرًا۔ گھورنا۔ تیز نظر ڈالنا۔
 جَنْشُ الطَّرِيقِ بِالنَّاسِ۔ لوگوں
 کی وجہ سے راستہ کا تنگ ہو جانا۔
 جَنْفٌ (ض) جُنُوفًا وَجَنْفٌ (س)
 جَنْفًا۔ عن الطريق۔ راستہ
 سے الگ ہونا۔
 (— وَاجْنَفْ)
 فی وصیتہ۔ اپنی وصیت میں
 ظلم کرنا۔
 صفت۔ (رَجِيفٌ وَاجْنَفٌ)
 جَالَفٌ۔ جفا۔ اہلہ۔ غصہ میں
 آکر اپنے اہل و عیال سے قطع تعلق
 کر لینا۔
 تَجَالَفٌ۔ للاثم۔ گناہ کی طرف
 مائل ہونا۔
 عن الطريق۔ راستہ سے ہٹ جانا۔
 الْجَنْفُ ظلم۔ عدل و حق سے انحراف۔
 الْاَجْنَفُ۔ کبڑا۔ کوزہ پشت۔
 مُوْثٌ۔ جَنْفًا۔ ج۔ جُنْفٌ۔
 اِلِجْنَفٌ۔ فطرۃ حق سے پھرا ہوا۔
 جَنْقٌ (ض) جَنْقًا وَجَنْقٌ۔
 الحجر۔ پتھر کو گو بھن سے
 پھینکنا۔
 الْمَنْجَنِيقُ۔ گو بھن۔ فلاخن۔ ایک
 مشین جس کے ورلیے لڑائی میں پتھر
 پھینکے جاتے ہیں۔
 ج۔ مَجَانِقٌ وَمَجَانِيقٌ وَ
 منجنيقات۔
 الْجُنْكُ۔ ایک قسم کا باجا۔
 ج۔ جُنُوكُ۔
 جَنْیٌ (ض) جَنْبًا وَجَنْیٌ۔
 الثمر۔ درخت سے پھل چننا۔
 کہتے ہیں "جنی الثمرة له
 وجناہ ایتاھا"
 (— جَنْیًا)۔

الذهب۔ سونے کو کان سے نکالنا۔
 (— جَنْیًا)۔ گناہ کرنا۔
 صفت (رجان) ج۔ جُنَاةٌ وَ
 أَجْنَاءٌ۔ وَجُنَاءٌ۔
 مُوْثٌ۔ جَانِیَّةٌ۔ ج۔ جَوَانِ
 وَجَانِیَاتٌ۔
 أَجْنِیٌ۔ الشجر۔ درخت کا پکے
 ہوئے پھل لانا۔
 اجنت الارض۔ زمین کا زیادہ
 پھل والی یا زیادہ پیداوار والی ہونا۔
 زرخیز ہونا۔
 جَانِیٌ۔ مُجَانَاةٌ وَتَجْنِیٌ۔
 علیہ۔ کسی کو ناکردہ گناہ سے
 مٹھ کرنا۔
 (تَجْنِیٌ وَاجْتْنِی)۔ الثمر۔
 پھل چننا۔ قوڑنا۔
 اجنتی ماء المطر۔ گھاٹ پر
 آکر پانی پینا۔
 الْجَنْیٌ۔ چنا ہوا۔ خواہ وہ پھل ہو یا
 سونا یا شدہ وغیرہ۔
 ج۔ أَجْنَاءٌ۔ وَاجْنِی۔
 ثمر (جَنْی)۔ تازہ چنا ہوا پھل۔
 ابھی کا توڑا ہوا پھل۔
 الْجَنْاةُ۔ ہر چنی ہوئی شے۔
 الْجَنْیَّةُ۔ گناہ۔ قصور۔ رشیم کا کپڑا۔
 الْمَجْنِی۔ مصدر میمی۔ وہ جگہ جہاں
 سے پھل چنا جائے۔ جس سے پھل
 توڑا جائے۔ جیسے درخت وغیرہ۔
 ج۔ مَجَانِی۔
 الْجَمْبَذُ۔ نقاد۔ کھرے کھوٹے میں
 فرق و تمیز کرنے والا۔
 ج۔ جَمَابَذَةٌ۔
 الْجَمْہَرُ۔ شیرنی۔
 جَمْہَجَہ۔ بالسبع۔ روکنے کے
 لیے للکارنا۔

تَجَاهَدَ . عنہ . باز رہنا .
رک جانا .

الْمُجَاهِدَةُ - شیر .
جَهْدَ (ف) فی الامر - بہت
کوشش کرنا .

بالرجل - کسی کا امتحان کرنا .
جَهْدُ المرض - بیماری کا کسی
کو لا غرور بلا کرنا .

جهد اللب - دودھ کا تمام
ممکن نکال لینا .

دس - واجہد .

الطعام - کھانے کی خواہش کرنا .
جَهْدٌ وَاجْهَدُ الدابة -
جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ
بو جھلا دنا .

أَجْهَدُ السال - مال بکیرنا . اور
فنا کر دینا .

أَجْهَدُ الحق - حق کا ظاہر ہونا .
أَجْهَدُ فيه الشیْب - کسی میں
بڑھاپا اچھی طرح ظاہر ہو جانا .

أَجْهَدُ فی الامر - احتیاط کرنا
أَجْهَدُ علينا العدو - دشمن کا
دشمنی میں پوری کوشش کرنا .

أَجْهَدُ الامر لزیء - کام
ممکن ہونا .

جُهْدٌ - پوری کوشش کرنا . نگیں ہونا
لاغر ہونا .

جَهْدٌ - دس ، جَهْدٌ ا - عیشہ -
زندگی کا کدھر ہونا . گزران مشکل ہونا .

جَاهِدٌ - مُجَاهِدَةٌ وَجْهًا - پوری
طاقت لگا دینا .

کہا جاتا ہے "جَاهِدُوا فی
اللہ حق جہادہ" اللہ کے
راستہ میں کوشش کا حق ادا کر دو .

العدو - دشمن سے جنگ کرنا .

تَجَاهَدَ - وَاجْتَهَدَ -

فی الامر - کسی امر میں کوشش کرنا
اور پوری طاقت خرچ کر دینا .

استجهد - فی الامر - کسی
امر میں غور کرنا .

الجُهدُ و الجُهدُ و المَجْهُودُ -
طاقت . استطاعت .

کتے ہیں - "بَدَلُ جُهدَا و
مَجْهُودَا" - اس نے اپنی طاقت
صرف کر دی . مشقت .

قرآن پاک میں ہے - "أَقْبِمُوا
بِاللہ جُهدَ ایمانہم" -

الجبَّاهِد - فا - بے خوابی والا .
کتے ہیں . جہدُ جَاهِد -

جیسے کتے ہیں - لیل لائل و
شعر و شاعر -

الجبَّاهِد - سخت بے نبات والی زمین .
جہ - جُهد -

الجبَّاهِد - دین کی حفاظت کی خاطر اور
اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جنگ -

الجبَّاهِد ان - وہ شخص جس کو مشقت
پہنچی ہو -

الجبَّاهِد - عمدہ چراگاہ -
کتے ہیں . مرغی جمیدہ -

الجبَّاهِدی - انتہا . آخری حد -
کتے ہیں . جہاد ان تفعل

کذا - تم زیادہ سے زیادہ ایسا
کر سکتے ہو -

الجبَّاهِدی - کوشش . پوری کوشش -
کہا جاتا ہے . لا بلغن جُہیدای

فی الامر - میں معاملہ میں اپنی
کوشش انتہا تک پہنچا دوں گا -

جَهْدٌ (ف) جَهْدًا وَجْهًا -
و جَهْدًا - الامر - وبالامر

اعلان کرنا .

بالقول - آواز بلند کرنا .

الصوت - آواز اٹھانا .

الوجل - کسی کو بے پردہ دیکھنا .
کسی کو دیکھنا اور آنکھوں میں بڑا معلوم

ہونا . تعظیم کرنا .
القوم - دیکھ کر زیادہ خیال کرنا .

الشیء - کسی شے کو کھولنا اور اس کا
اندازہ کرنا .

الارض - ایک اجنبی ملک وزمین
میں چلنا .

الشیء فلاناً - بیٹت جمال سے
کسی کو عالم حیرت میں ڈال دینا .

الامر - اعلان پانا . مشہور ہونا .
السقاء - مشیزہ میں بھوکہ ممکن

نکالنا .
جَهْرَت - دس ، جَهْرًا -

العین - سورج سے آنکھوں کا خیرہ
ہو جانا . چندھیا جانا .

صفت (د جَهْر) -
مونث - جَهْرًا - جہ - جَهْر -

جَهْرًا - جَهْرًا -
الصوت - آواز کا بلند ہونا .

صفت (جہیر و جہر) -
الرجل - کسی کا دیکھنے والے کی نظر

میں دلیشان و ذی عظمت ہونا .
جَاهِرَةٌ - مُجَاهِرَةٌ وَجْهًا -

بالشیء - کھلم کھلا ظاہر کرنا .
بالقراءة - پڑھنے میں آواز کو

بلند کرنا .
القوم بالامر - غلبہ کی

کوشش کرنا .
أَجْهَرُ - الامر و بہ - کسی امر کا

اعلان کرنا .
بالقراءة - پڑھنے میں آواز کو

اٹھانا . بلند کرنا .



الرجل و یجسکون صاحب جمال چونکہ باب ہنا
تجاہر۔ بالامر۔ کھلے طور سے
ظاہر کرنا۔
اجتہد۔ القوم۔ شمار میں بہت
جاننا۔ سمجھنا۔
الرجل۔ کھلم کھلا دیکھنا اور برا
سمجھنا۔
البیڑ۔ کنویں کو صاف کرنا۔
الشیء فلائاً۔ ہیئت و جمال سے کسی
کو حیرت میں ڈال دینا۔
الجہر۔ مص۔ چوڑا ٹیڈ۔ زمانہ کا ایک
حصہ۔
کتنے ہیں۔ کلمتہ جہراً و
بالجہرہ میں نے اس سے کھلے اور
صاف الفاظ میں بات کی۔
لقیتہ جہراً۔ میں نے اس سے
منہ درمنہ ملاقات کی۔
الجہر۔ ہیئت حسن منظری۔ ظاہری
شکل و شبہا بہت۔
الجہاس۔ مص۔
کتنے ہیں۔ "لقیتہ جہاساً"
میں نے اس سے منہ درمنہ ملاقات
کی۔
الجہارۃ۔ مص۔ (د۔ والجہورۃ)
قد و منظر کا حسن۔
الاجہر۔ خوبصورت ہیئت والا۔ سورج
کی روشنی سے چندھیانے والا۔
مونث (جہراء) جہر۔ جہر۔
جہوس۔ اٹھی ہوئی اور قوی آواز والا۔
جہر۔ جہر۔
الجہیر۔ خوبصورت و جمیل بھلائی ہو
نیکی کے لائق۔
من اللبن۔ وہ دودھ جس میں
پانی کی آمیزش نہ ہو۔
کلام جہیر۔ بلند آوازی کی گفتگو۔

امراۃ جہیرۃ۔ بلند آواز والی
عورت۔
کما جاتا ہے "هو عقیف"
السریۃ والجہیرۃ۔ وہ ظاہر
و باطن کا پاکدامن ہے۔
الجہوسی۔ بلند۔ آواز کی صفت
بن کر آتا ہے۔ کتنے ہیں۔
صوت جہوسی۔ بلند آواز۔
رجل جہوسی۔ بلند آواز والا
آدمی۔
الجہر۔ والجہاس۔ عادی کھڑی
آواز سے بات کرنے والا آدمی۔
المجہر۔ خوردین۔
جہز (د) جہزاً و آجہز۔
علی الجہیم۔ زخمی کو مار کر اس
کا کام تمام کر دینا۔
جہز۔ مہیا کرنا۔ تیار کرنا۔
المہیت۔ سب کے کفن و دفن کا سامان
مہیا کرنا۔
العروس۔ دلہن کے جہیز کا
سامان تیار کرنا۔
تجہز۔ للسفر۔ سفر کا ضروری سامان
مہیا کرنا۔
(د۔ واجہاس)۔
الامر۔ کسی امر کے لیے تیار ہونا۔
آبادہ ہونا۔
الجہاس۔ والجہاس۔ للہیت
او للمسافر۔ او للعروس۔
گھریا مسافر یا دلہن کا احتیاجی
سامان۔
من جسم الانسان۔ وہ
اعضائے انسانی جن سے کوئی خاص
غرض ملحوظ ہے۔ مثلاً اعضاء تنفس۔
یا آلات ہضم۔ جہر۔ آجہزہ۔
واجہزات۔

الجہزۃ۔ بلند زمین۔
الجہیز۔ تیز رفتار گھوڑا۔
موت (جہیز و مجہز ناگمانی
موت۔
جہیزۃ۔ یہ ایک عورت کا نام ہے۔
قطعت جہیزۃ قول کل
خطیب۔ یہ ایک مشہور مثل ہے
اور اس کی اصلیت یہ ہے کہ ایک
مرتبہ چند مقررین نے دو قبیلوں کے
درمیان خون کے معاملہ میں صلح کرانے
کے لیے تقریروں کا سلسلہ چھیڑ رکھا
تھا اور اولیائے مقتول کو دیت پر
راضی رکھنے کا مسئلہ سامنے تھا۔ کہ
ایک بیک جہیز نے خبر پھپھائی، کہ
ولی مقتول نے قاتل کا کام تمام کر دیا
یہ خبر سنتے ہی لوگوں کی زبان سے یہ
جملہ نکلا۔ قطعت جہیزۃ قول
قول کل خطیب۔ یعنی اب گفتگو
کی گنجائش ہی نہیں رہی کیونکہ قاتل
کے قتل کے بعد دیت و مقدار دیت کا
سوال ہی نہیں اٹھتا۔
جہش و جہش (د) جہشاً
و جہوشاً و جہشاً۔
الیہ۔ روتے ہوئے یا رونا سا ہو کر
کسی سے فریاد کرنا۔
جہش (د) جہشاً۔
منہ۔ کسی سے ڈر کر بھاگنا۔
آجہش۔ الیہ۔ بمعنی جہش
بالبکاء۔ رونے کے لیے تیار
کرنا۔
آجہشت النفس۔ اٹھنا۔
آجہشتہ۔ جلدی کرنا۔
الجہشتہ۔ آنسو۔
(د۔ الجاہشتہ) لوگوں کا
گروہ۔



جَاهِلَّہ۔ نادانی میں مقابلہ کرنا۔ بدسلوکی

ناقة مجهولة^٩ وه او شني

الاجنبی۔ کنجا۔ (—) والمخفی،

من البيوت - بغیر محبت والا مریگا۔
مؤنث۔ جہوآء۔

يُخْبَأُ نُجْمٌ - وہ نیمہ جس کا پردہ نہ ہو۔

سَمَاءٌ جَهْوَاءٌ - کھلا آسمان۔

بَيْتٌ جَهْوَانٌ - بے پردہ کامرگا

جَابٌ (ن) جَوْبًا - وَتَجَوَّابًا -

البلاد - ملک کو طے کرنا۔ عبور

کرنا۔

جَابُ الثَّوْبِ جَوْبًا - کپڑا کا ٹٹنا۔

الصَّخْرَةُ - چٹان میں سوراخ کرنا۔

یا اس کو تراشنا۔

جَابٌ (ن) جَوْبًا - وَجَوَّبَ -

الثَّوْبِ - گریبان بنانا۔

جَوَّبَ الثَّيَّءَ - کسی شے کو بیچ

سے کا ٹٹنا۔

جَادِبُهُ - مَجَاوِبُهُ - گفتگو کرنا۔

جواب دینا۔

أَجَابَهُ إِجَابَةً وَإِجَابًا وَأَجَابَ

سواله وعن سواله والی

سواله - جواب دینا۔

کتنے ہیں؟ أَجَابَهُ إِلَى حَاجَتِهِ؟

اس نے خوشی سے اس کی حاجت

روائی کی۔

اجابت الأرض - زمین کا سبزہ

اگانا۔

تَجَاوَبُوا - ایک کا دوسرے کو جواب

دینا۔ باہم گفتگو کرنا۔

إِنْجَابٌ - الثَّوْبِ - کپڑے کا پھٹنا۔

السَّحَابَةُ - بادل کا کھل جانا۔

إِجْتَابٌ - البلاد - شہروں کو عبور کرنا

طے کرنا۔

الصَّخْرَةُ - چٹان کو تراشنا۔

الْبَثْرُ - کنواں کھودنا۔

الْقَيْصُ - قیص بنانا۔

إِسْتَجَابَهُ وَاسْتَجَابَ لَهُ

استجابةً - واستجوبه و

استجوب له استجوابًا -

جواب دینا۔

اللَّهُ فُلَانًا وَفُلَانٍ وَمَنْ

فُلَانٍ - اللہ تعالیٰ کا کسی کی

دعا کو قبول فرما کر اس کی حاجت

روائی فرمانا۔

الْجَوْبُ - مص - عورت کی قمیص۔

بُڑا ڈول - اگیٹھی۔

ج - أَجْوَابٌ -

(—) وَالْمَجْوَبُ (ڈھال۔

الْجَوْبَةُ - گرٹھا۔ گھروں کے درمیان

خالی زمین کا ٹکڑا۔

ج - جَوْبٌ -

الْجَوَابُ - جواب - ج - أَجْوَبُهُ

وَجَوَابَاتٌ -

الْجَابَةُ - قبولیت۔

کتنے ہیں؟ "أَسْمَاءُ سَمْعًا فَاسَاءَ

جَابَةُ" - اس نے بُرے طریقے

سے سنا اور بُرے ہی طریقے سے

قبول کیا۔

الْجَوَابُ - بہت پھرنے والا۔ حریری

نے کہا ہے۔

"جَوَابُ أَفَاقٍ تَرَامَتْ سَفَرَتَهُ"

آفاق کو طے کرنے والا ہے۔ سفر اس

کو پھینکتا رہتا ہے۔

الْجَبِيَّةُ - جواب کی ہیئت و کیفیت۔

الْجَائِبُ - فَا - جَائِبُ الْعَيْنِ - شیر۔

الْجَائِبَةُ - پھیل جانے والی خبر۔

عام خبر۔

کتنے ہیں؟ "هَلْ عِنْدَكَ مَنْ

جَائِبَةُ خَبْرٍ" - یعنی کیا تمہارے

پاس ایسی خبر ہے جو شہر و شہر

چکر لگا رہی ہو۔

المجوبة - جواب۔

المجواب - بھاڑنے کا آلہ۔

جَاحٌ (ن) جَوْحًا - سیدھے راستے

سے ہٹ جانا۔

رَجَاحُهُ جَوْحًا وَجِيَّاحَةً وَ

أَجَاحَهُ وَاجْتَاَحَهُ - جُڑ

سے اکھیڑنا۔ ہلک کرنا۔

الْجَارِيَةُ - بلا ہلاکت۔ بڑی آفت۔

سَنَةُ جَارِيَةٍ - خشک سال۔

ج - جَائِحَاتٌ وَجَوَائِحُ -

الْأَجْوَحُ - وسیع۔ کشادہ۔

مؤنث۔ جَوَّجَاءٌ - ج - جُوحٌ -

الْجَوْحَةُ - سختی۔ مصیبت۔ آفت۔

جَاحٌ (ن) جَوْحًا وَجَوْحًا -

السیل الوادی - سیلاب کا وادی

کے کناروں کو بہا لے جانا۔

جَوَّحَهُ - پچھاڑنا۔ اکھیڑنا۔

تَجَوَّحَ - گر جانا۔ اکھڑ جانا۔

تَجَوَّحَتِ الْبَثْرُ - کنویں کا گر جانا۔

الْفَرْحَةُ - زخم کا پھٹنا اور بہہ جانا۔

الْجُوحُ - اونٹنی کا پھٹنا۔ بانات۔

ج - أَجْوَاخٌ -

الْجَوْحَةُ - اونٹنی کے کھڑے کا ٹکڑا۔ گرٹھا۔

جَادٌ (ن) جَوْدَةٌ وَجَوْدَةٌ - عمدہ

ہونا۔ اچھا بنانا۔

(—) وَجَوْدٌ وَاجْوَدٌ -

الفرس گھوڑے کا تیز رفتار ہونا۔

جَادَا (ن) جَوْدًا - بخشش میں

غالب ہونا۔

۵. الهوى - غالب ہونا۔

(—) جَوْدًا -

عليه - بخشش کرنا۔

صفت۔ (جَوَادٌ)

بالمال - مال خرچ کرنا۔

بنفسہ - جان دینا۔



کہتے ہیں: "إِنِّي لَأَجَادُ إِلَى لَفَائِكَ" میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں۔
 (جوداً - وجوؤداً) العین۔ آنکھ کا کثرت سے آنسو بنانا۔
 المطر۔ بہت بارش برسنا۔
 صفت۔ (جائداً) ج۔ جود۔
 جیدت۔ الاسر ض۔ زمین پر کثرت سے بارش ہونا۔
 جید الرجل۔ آدمی کا ہلاکت کے قریب ہونا۔ پیاسا ہونا۔
 جود۔ الشیء۔ خوبصورت بنانا۔ عمدہ بنانا۔
 فی عدوہ۔ تیز دوڑنا۔
 القاسی۔ قاری کا تجوید سے پڑھنا۔
 جوادۃ۔ تجاودۃ۔ فیاضی میں مقابلہ کرنا۔
 آجاء۔ اچھا بنانا۔
 بالولد۔ فیاض بچہ کا باپ ہونا۔
 اجادہ النقد۔ کھرے کھرے سکے دینا۔
 (و آجود) الشیء۔ عمدہ بنانا۔
 اجاد الرجل۔ کسی کو قتل کرنا۔
 اجیدت الاسر ض۔ زمین پر کثرت بارش برسنا۔
 تجوود۔ عمدہ چیز پسند کرنا۔
 فی صنعتہ۔ اپنی کاریگری میں باریکی دکھانا۔ صنعت میں عمدگی سے کام کرنا۔
 تجاود۔ القوم۔ یہ غور کرنا کہ محبت کی رو سے کون بہتر ہے۔
 کہتے ہیں: "ہم۔ یتجاودون الحدیث۔ یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ

بماظ حدیث کون افضل ہے۔
 استجادۃ۔ کسی کو عمدہ سمجھنا۔ اچھا شمار کرنا۔
 استجاد الامیر۔ امیر سے بخشش مانگنا۔
 الجاد۔ باطل۔
 کہتے ہیں: "وقعوا فی ابی جاد" وہ لوگ باطل میں پڑے۔
 الجود۔ مص۔ الجود والمطر الجود۔ بہت بارش۔
 الجودۃ والجواد۔ پیاس۔
 الجواد۔ پیاس یا اس کی شدت۔
 الجیّد۔ عمدہ۔ ج۔ جیاد۔
 وجج۔ جیادات وجیاد۔
 قیاس پابناتھا کہ جمع جیاد۔ ہوتی مگر واؤ کو ہمزہ سے بدل لیا گیا ہے اور یہ شاذ ہے۔
 الجواد۔ سخی۔ مذکر و مؤنث) کہتے ہیں: "رجل جواد" و امراة جواد۔
 ج۔ آجواد، و آجواد۔ و آجواد۔ و جود و جودۃ و جودۃ۔
 فوس جواد۔ تیز رفتار گھوڑا۔
 ج۔ جیاد و آجیاد۔ و آجواد۔
 کہتے ہیں: "سوت المیہ جواد" میں اس کی طرف تیز رفتاری سے چلا۔
 سرنا عقبۃ جواداً و عقبۃ جوادین و عقاباً جیاداً۔ یعنی ہم دور کی گھاٹی یا دو گھاٹی یا گھاٹیوں پر چلے۔
 الجواد۔ بہت سخی۔ بڑا فیاض۔
 الجود۔ اسم تفضیل۔

مؤنث جواداً۔ (خلاف قیاس) ج۔ جود و آجواد۔
 الجادی۔ زعفران۔
 التجاوید۔ عمدہ نفع بخش بارشیں (اس کا واحد نہیں)
 رجل او شاعر (موجید و مجواد) عمدہ کام کرنے والا آدمی۔
 یا اچھے شعر کہنے والا شاعر۔
 الجود۔ پیاسا۔ ہلاکت کے قریب۔
 جاس (ن) جوساً۔ عن الشیء۔ کسی چیز سے ہٹ جانا۔
 کہتے ہیں: "جاس عن الطریق" وہ راستہ سے ہٹ گیا۔
 علیہ۔ کسی پر ظلم کرنا۔ صفت۔ (جائداً)
 ج۔ جودۃ و جودۃ و جارة۔ (جوساً) فریاد رسی چاہنا۔
 جوسۃ۔ ظلم کی طرف منسوب کرنا۔ پہچاننا۔
 جوس البناء۔ گرا دینا۔ ڈھادینا۔
 جاورۃ۔ مجاورۃ و جواساً۔ و جواساً۔ پڑوس میں رہنا۔
 المسجد۔ مسجد میں اعتکاف کرنا۔
 آجاء۔ اجارۃ۔ من العذاب۔ عذاب سے چھٹکارا دلانا۔ بچانا۔
 فلائاً۔ فریاد رسی کرنا۔
 عن کذا۔ ہٹا دینا۔
 المتناع۔ بغرض حفاظت برتن میں رکھنا۔
 تجوس۔ الرجل۔ پہچاننا۔
 علی الفرائض۔ لیٹنا۔
 البناء۔ منہدم ہونا۔
 کہتے ہیں: "تجوس جناء اللیل" یعنی رات کی تاریکی چھٹ گئی۔

تَجَاوَسَ - وَاجْتَوَسَ - الْقَوْمُ -
ایک دوسرے کے پڑوس میں رہنا۔
اِسْتَجَّاسَ - فَلَانًا وَبِهِ - کسی سے
فریادرسی چاہنا۔ پناہ لینا۔
اِسْتِجَارَةٌ مِنْ فُلَانٍ - پناہ
چاہنا۔ مدد مانگنا۔
اِسْتَجْوَسَ - ظَالِمًا -
الْجَوَّاسُ - گہرا پانی۔
الْجَوَّاسُ - پڑوس۔
کہا جاتا ہے۔ اقامہ فی جوارہ
وہ اس کے پڑوس میں اقامت پذیر ہوا۔
امان و عہد پیمان۔
کہتے ہیں۔ ہوفی جوارہ۔ وہ
اس کے امن اور ذمہ داری میں ہے۔
الْجَّاسُ - پڑوسی۔ پناہ دینے والا۔
پناہ گیر۔
ج۔ جِيدَانٌ وَجِيذَةٌ - وَجَوَّاسٌ
وَاجْوَارٌ (جَارُ النَّهْرِ) -
نیلوفرے ملتی ہوئی ایک نبات۔
الْجَارَةُ - پڑوسن۔ بیوی۔ سوت۔
ج۔ جَارَاتٌ -
الْجَوَّسُ - مص۔ ظالم۔
الْجَوَّسُ - بہت کڑک اور گرج والی
بارش۔
الْمُجَّوَّسُ - گہرا۔
مَالٌ جَوَّسٌ - بہت مال۔
جَوَّسٌ بَهْ - پائتا بہ پھنا۔ جراب
پھنانا۔
تَجَوَّرَبَ - پائتا بہ پھنا۔
الْجَوَّرَبُ - پائتا بہ۔
ج۔ جَوَّارِبٌ وَجَوَّارِبَةٌ -
عوام اس کو الکسہ، اور
الْقَلَشِينَةُ کہتے ہیں۔
الْجَارُوسُ - ہاجرہ۔
جَاسَرٌ (جَوَّارٌ وَجَوَّوْسٌ) -

وَجَوَّاسٌ اَوْ فَجَّاسٌ -
المكان وباللمكان - کسی جگہ
گزرنا۔ چلنا۔
المكان - کسی جگہ سے گزر کر
آگے بڑھنا۔
الْبَيْعُ - بیع کا پورا ہونا۔
(— جَوَّاسٌ) -
الامر - جائز ہونا۔ درست ہونا۔
کہتے ہیں۔ جَازَ لَهُ اَنْ يَفْعَلَ
کذا۔ اس کے لیے ایسا کرنا جائز
ممكن اور روا ہے۔
الدَّسْهَمُ - راجح ہونا۔
السَّهْمُ اِلَى الصَّيْدِ - تیر کا شکار
سے بچ کر نکل جانا۔
عَنْ الصَّيْدِ - شکار کو پار کر کے
نکل جانا۔
جَوَّسَنَ - الامر - مباح ٹھہرنا۔ جائز
قرار دینا۔
الْحَكْمَ - جائز سمجھنا۔
رَأْيَهُ - جاری اور نافذ کرنا۔
الْأَبْلُ - آگے سے ہٹنا۔ یہاں
تک کہ سب گزر جائیں۔
الدَّرَاهِمُ - راجح کرنا۔
جَاوَسَ - المكان - کسی جگہ سے
آگے بڑھ جانا۔
عَنْ الذَّنْبِ - گناہ سے درگزر
کرنا۔
الْوَجَلُ - کسی کو اجازت دینا۔
أَجَازَ - أَجَازَةً - الشَّيْءَ - جائز
کرنا۔
الْوَأَى - نافذ کرنا۔
الْوَجَلُ - اجازت دینا۔
أَجَازَهُ بِالْفِ دَسْهَمَ - کسی کو
ایک ہزار درہم کا انعام بخشنا۔
عَلَى اسْمِهِ - کسی کے نام کا ٹھپا

لگنا۔
الموضع - کسی مقام سے آگے
بڑھ جانا۔
القاضي البيع - قاضی کا بیع کو
نافذ کرنا۔
أَجَازَهُ الْعَقْبَةَ - گھاٹی سے
گزار دینا۔
تَجَوَّسَنَ - فِي الْأَمْرِ - کسی معاملہ میں
برداشت کرنا۔ چشم پوشی کرنا۔
فِي الصَّلَاةِ - نماز میں اختصار
کرنا۔
فِي كَذَا - بقول چیز پر اکتفا کرنا۔
عَنْهُ - چشم پوشی کرنا۔ معاف
کرنا۔
فِي الْكَلَامِ - محاذ ہونا۔
الدَّسْهَمُ - کھوٹے درہم
قبول کر لینا۔
تَجَاوَسَنَ - عَنْهُ - چشم پوشی کرنا اور
معاف کرنا۔
فِي الشَّيْءِ - اِفْرَاطُ کرنا۔
اِجْتَّاسَنَ - چلنا۔
بِالْمَكَانِ - گزرنا۔
مِنْ مَكَانٍ إِلَى الْخَوْرِ - عبور کرنا
اِسْتِجَازَ - اِسْتِجَازَةً - اجازت
مانگنا۔
الامر - کسی امر کو جائز سمجھنا۔
الْجَائِزُ - فَا - نافذ۔ مباح۔ دو دیواروں
کے اوپر رکھی ہوئی لکڑی۔
ج۔ جَوَّارِيزٌ وَجَوَّوْسَانٌ وَ
جِيْزَانٌ وَاجْوُونٌ وَاجْوُونَةٌ -
الْجَارِيزَةُ - اِجَارِيزٌ - کامونٹ عطیہ
انعام بخشش۔ پانی کا ایک گھونٹ۔
ج۔ جَوَّارِيزٌ جَوَّارِيزُ الْاَشْعَاسِ
والامثال۔ ایک شہر سے دوسرے
شہر منتقل ہونے والے اشعار و امثال۔

الجَوَاطُ - تنگی اور بے صبری۔
 الجَوَاطُ - تکبر سے چلنے والا۔ اجڈ۔ اکھڑ
 بسیار خور۔
 الجَوَاطُ - بمعنی جَوَاطُ - تا
 مبالغہ کے لیے ہے۔
 جَاع - (ن، جَوَعًا - وَمَجَاعَةً -
 بھوکا ہونا۔
 صفت۔ (جَائِعٌ، وَجَوَعَانٌ)
 مؤنث۔ جَائِعَةٌ وَجَوَعِيٌّ۔
 ج۔ جِيَاعٌ وَجَوُّوعٌ -
 البیہ کسی کا مشتاق ہونا۔
 جَوُّوعَةٌ - تجويعًا و اجاعه
 اجاعه - بھوکا رکھنا۔ خوراک
 روکنا۔
 کہتے ہیں۔ "أَجَاعَ قُلْدَسًا"
 اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں بھرا۔
 تَجَوُّوعٌ - بناوٹی بھوکا بننا۔
 استِجَاعٌ استِجَاعَةٌ - ہر گھڑی
 تھوڑا تھوڑا کھاتے رہنا۔ کوئی چیز کھانا
 لیکن سیر نہ ہونا۔
 الجوع والمجاعة - بھوک۔
 الجوع الكلبی او الجوع
 البقری - معدہ کی وہ بیماری جس کی
 وجہ سے انسان کھانے سے کبھی سیر نہ
 ہو اور اگر سیر ہو جائے تو جلد ہی اس کو
 پھر بھوک لگ آئے
 کہتے ہیں۔ "عام مجاعة او۔
 مجوعه" - بھوک کا سال۔
 ج۔ مجادع۔
 الجوعه - اسم مرة۔ قبیلہ کا خالی
 ہو جانا۔
 جَوْتُ (ن، جَوًّا - کھوکھلا ہونا۔
 هـ بالطعنة - پیٹ میں نیزہ
 مارنا۔
 أَجَانَدَ - الطعنة وبالطعنة۔

والی زمین۔
 کہتے ہیں۔ ارض مجازة۔
 المَجِيْزُ - فا۔ ولی۔ یتیم کی دیکھ بھال
 کرنے والا یا منتظم۔ گارجین۔ وہ
 غلام جس کو تجارت کی اجازت ہو۔
 جَاس - (ن، جَوَسًا وَاجْتَسًا
 اجتسًا۔
 الشیخ کسی چیز کو بہت چاہنا۔ اور
 بہت انہماک سے تلاش کرنا۔
 (جَوَسًا وَجَوَسَانًا)۔
 القوم بین البیوت والدوسر۔
 لوٹ کے لیے گھروں اور مکانوں کے
 ارد گرد گھومنا۔
 جاسا ہ۔ قوم میں گھس کر۔
 الجَوَّاس - قوم میں گھس کر فساد برپا
 کرنے والا۔ شیر۔
 جَوَسْتَه - الناطقہ۔ ٹکٹکی۔
 الجَوَسَق - محل۔
 ج۔ جَوَاسِقٌ وَجَوَاسِقٌ۔
 جَاش (ن، جَوَّشًا - رات بھر چلنا۔
 تَجَوَّش - اللیل۔ رات کا کچھ حصہ
 گزر جانا۔
 فی الارض۔ داخل ہونا۔
 الجَوَّش - مص۔ سینہ۔
 کہتے ہیں۔ "مضی جوش من
 اللیل" رات کا شروع یا رات کا
 کچھ حصہ گزر گیا۔
 الجَوَّشَن - سینہ۔ زرہ۔
 من اللیل۔ وسط رات یا
 اس کا اگلا حصہ۔
 ج۔ جَوَّاشَن۔
 جَاطَان (ن، جَوَّطًا وَجَوَّطَانًا۔
 اکڑ اور تکبر سے چلنا۔
 جَوَّظ - تنگ ہونا۔ بے صبر ہونا۔
 (ن، وَجَوَّظًا) کوشش کرنا۔

الجَوَّس - مص۔ اخروٹ کا درخت۔
 اخروٹ۔ واحد۔ جَوَّزَة۔
 الجَوَّزَة - پانی کی ایک مرتبہ پینے کی
 مقدار۔ جَوَّس ہندی۔ ناریل۔
 جَوَّس - الشی - چیز کا وسط، اور
 اکثر حصہ۔
 کہتے ہیں۔ "قطعوا جوسرة
 الفلاة" انھوں نے جنگل کا بیشتر
 حصہ طے کر لیا۔
 ومضی جوسر اللیل۔ رات کا
 اکثر حصہ گزر گیا۔ ج۔ أَجَوَّسَن۔
 الجَوَّسَنَاء - آسمان کے ایک برج کا
 نام ہے۔ وہ سیاہ بکری جس کے
 وسط میں سفیدی ہو۔
 الجَوَّاز - ص۔ پروانہ۔ راہ واری۔
 علم اس کو تذکرة السفر یا
 پاسپورٹ کہتے ہیں۔ ج۔
 أَجَوَّزَة۔
 پانی کی اس قدر مقدار جو مسافر اپنے
 ہمراہ لے اور وہ ایک چشمہ سے دوسرے
 چشمہ تک اس کو کافی ہو۔
 الجیزة - کنارہ۔ گوشہ۔ وادی کا
 کنارہ۔ پانی کی ایک مرتبہ پینے کی
 مقدار۔
 ج۔ جِيزٌ وَجِيزٌ۔
 الاجازة - اذن۔ اجازت۔
 اصطلاح محدثین میں روایت کی
 اجازت لفظ یا کتابت۔
 المجاسن - وہ لفظ جو اپنے موضوع کے
 علاوہ کسی اور معنی میں کسی مناسبت
 سے استعمال کیا جائے۔
 (ن، والمجازة) راستہ۔
 گزرگاہ۔
 مجاسن النهر۔ پُل۔
 المجازة - بست اخروٹ پیدا کرنے

پیٹ میں نیزہ مارنا۔
 الباب۔ دروازہ بھیڑ دینا۔
 جَوْفَه۔ کھوکھلا کرنا۔ گرا کرنا۔ جوف میں جو
 کچھ ہے۔ سب نکال لینا۔
 تَجَوَّفَ۔ کھوکھلا ہونا۔ وجود سے
 واجتاف۔ جوف میں داخل ہونا۔
 کہا جاتا ہے۔ "اجتاف الوحشی
 کناسه و تَجَوَّفَه" وحشی جانور
 اپنے بھٹ میں گھس گیا۔
 استجاف واستجوف استجافۃً۔
 الشئ۔ وسیع و کشادہ ہونا۔
 الشئ۔ کھوکھلا کرنا۔
 الجوف۔ مص۔ پیٹ۔
 من البيت۔ مکان کا اندرونی
 حصہ۔ ج۔ اجواف۔
 الجوف۔ مص۔ کشادگی۔
 الجائف۔ فا۔ جوف تک پہنچنے
 والی چیز۔ مؤنث۔ جائفۃ۔
 الجائفۃ۔ جوف تک پہنچنے والی
 نیزہ کی چوٹ یا ضرب۔
 ج۔ جَوَاف۔
 الاجوف۔ کھوکھلا۔ وسیع کو کہہ والا۔
 مؤنث۔ جَوَفَاء۔ ج۔ جُوف
 الجوفاء من الدلاء۔ بڑا
 ڈول۔
 من القنا او الشجر۔ اندر سے
 کھوکھلا۔ اندر سے خالی۔
 الفعل الاجوف۔ وہ فعل جس
 کا عین کلمہ حرف علت ہو۔ جیسے
 قال و باع۔
 المجوف۔ بڑے جوف والا۔
 المجوف۔ کھوکھلا۔
 رجل رجوف واجوف۔ و
 مجوف، بزدل۔
 المستجاف۔ وسیع جوف والا۔

جَوَق۔ رس، جَوَقًا۔
 الوجه۔ منہ کا ٹیڑھا ہونا۔
 صفت (اجوق و جوق)
 مؤنث۔ جَوَقَاء۔ ج۔ جَوَق
 جَوَق۔ القوم۔ لوگوں کو جمع کرنا۔
 علیہ۔ چلانہ شور مچانا۔
 تجوقوا۔ جمع ہونا۔
 الجوق۔ ج۔ اجواق والجوقۃ۔
 لوگوں کی جماعت۔
 الاجوق۔ مؤنث گردن والا۔
 اجوق الفک۔ ٹیڑھے جڑے
 والا۔
 المجوق۔ ٹیڑھے جڑوں والا۔
 جال۔ دن، جَوَلًا و جَوَلًا و جَوَلًا۔
 و جَوَلًا و جَوَلًا و جَوَلًا
 تجوالاً۔
 فی المکان۔ پھرنا۔ چکر لگانا
 گھومنا۔
 حال الشئ۔ چیز پسند کرنا۔
 جال القوم جولةً۔ بھاگنے کے
 بعد پھر حملہ کرنا۔
 جَوَل الاسر۔ زمین میں بہت
 چکر لگانا۔
 جَاوَلَه مَجَاوَلَةً۔ ایک دوسرے
 کو دھتکارنا۔ بٹانا۔
 آجال۔ الشئ و بالشئ۔ گھمانا۔
 السیف۔ تلوار سے کیلنا۔ اور
 اس کو ادھر ادھر گھمانا۔
 کہتے ہیں۔ "أَجِلْتُ جَائِلَتًا"
 جس کام میں تو مشغول ہے اسے
 پورا کر۔
 تجاول۔ القوم فی الحرب۔
 ایک دوسرے کے مقابلے میں
 چکر لگانا۔
 اجتال۔ اجتالاً۔ گھومنا۔

القوم۔ ارادہ سے پھیر دینا۔
 منهم جولاً۔ پسند کرنا۔
 اموالهم۔ لے جانا۔
 اِنْجَال۔ الغبار۔ غبار کا اوپر
 اٹھ کر پھیل جانا۔
 استجال۔ استجالۃً۔ اموالهم
 اموال لے جانا۔
 الجول۔ گھوڑوں یا چرواہوں کا گلد۔
 رُبَی۔ ج۔ آجوال۔
 — وال جول، وہ مٹی جس کو ہوا
 سطح زمین پر اڑاتی پھرے۔
 الجال والجول۔ قبر یا کنویر کی دیوار
 پہاڑ کا پہلو۔
 جول القبر۔ قبر کا ارد گرد۔
 کہتے ہیں: مالہ جال، اد
 جول۔ اس کی نہ کوئی رائے ہے
 نہ مضبوط ارادہ۔
 ج۔ چوال و جوال۔ و جوالۃ
 و جوالۃ و آجوال۔
 الجوالۃ۔ من الشئ۔ چیز کا
 بہتر حصہ۔
 الجولان والجولان۔ وہ مٹی جس کو
 ہوا ادھر ادھر گھماتی پھرے۔
 الجولان۔ مص۔ مال کا چھوٹا اور
 رومی حصہ۔
 جولان المہوم۔ غموں کا آغاز۔
 الجول والجوالۃ۔ بہت گھومنے
 والا۔
 کہا جاتا ہے: "هو جوالۃ جوالۃ"
 وہ بہت چکر لگانے والا اور مقامات
 میں پھرا ہوا ہے۔
 الاجول۔ اسم تفضیل۔
 يوم آجول۔ بہت گرد و غبار
 والا دن۔
 الاجولی۔ بہت چکر لگانے والا گھوڑا۔



المَجَال - چکر لگانے کی جگہ۔
 المَجُول - ڈھال۔ پازیب۔ تعویذ۔ ہار
 میں چاندی کا ہلال۔ کرتی۔
 المَسْتَجِيل - بے وقوف۔
 جَام - دن، جَوَمًا - کچھ بھلی یا بری
 چیز طلب کرنا۔
 الجَام - پیالہ۔ جر۔ جامات و
 آجَوَام و آجُوم۔ وجُوم۔
 الجُومِیۃ - جام کی تصغیر۔
 جَان دن، جَوْنَا - کالا ہونا۔
 تَجَوْن - باب العروس۔ دلہن کے
 دروازے پر سفیدی کرنا۔
 باب المِیْت - مردہ کا دروازہ
 سیاہ کرنا۔
 الجَوْن - عص۔ سفید۔ سیاہ۔ خالص
 سُرخ۔ وہ سبزی جو سیاہی مائل
 سبز ہو۔ دن۔
 من الخیل والابل - بہت
 سیاہ گھوڑا یا اونٹ۔
 ج۔ جُون۔
 الجَوْنۃ - ڈوبتے وقت کی سورج
 کی ٹکبیا۔ تارکول لگا ہوا مٹکا۔
 کوئلہ۔
 الجَوْنۃ - عطاروں کی چمڑے
 کی ٹوکری۔ ج۔ جُون۔
 الجَوْناء - سورج۔ ہانڈی۔ سیاہ
 اونٹنی۔
 الجَوْنِی - قطا پرندہ کی ایک قسم۔
 جس کا سینہ اور بازو سیاہ
 ہوتا ہے۔
 جَاۃ - دن، جَوْهًا - الرجل۔
 بال مکروہ۔ ناپسند طریقہ سے
 پیش آنا۔
 جَوْهۃ تجوہا و آجَاہۃ و
 رَا جَاہۃ۔ صاحب مرتبہ

بنانا۔
 تَجَوَّۃ - بڑا ہونا۔ بتکلف بڑا بننا۔
 الجَاۃ - والجاہۃ۔ قدر و شرف
 اور بلندی مرتبہ۔
 الجَوْہَر - مقابل عرض جو اپنے وجود
 میں اور کا محتاج نہ ہو۔
 ہر وہ پتھر جس سے مفید چیز نکالی
 جائے۔ واحد۔ جوہرۃ۔
 ج۔ جَوَاہِر۔
 جوہر الشی - چیز کی طبیعت یا
 اصلیت یا فطرت۔
 جوہر السیف - تلوار کا جوہر۔
 الجَوْہر الفرد - وہ چیز جو قابل
 القسام نہ ہو۔ ایٹم۔
 الجَوْہر العلویۃ - افلاک
 ستارے۔ ارواح۔
 الجَوْہری - جوہر کی جانب منسوب
 ضروری و لازم (عرضی کا مقابل) جوہر کا
 بنانے والا اور بیچنے والا۔
 جَوْی - تجوویۃ۔ السقاء۔
 مشک میں پیوند لگانا۔
 الجَوّ - آسمان زمین کی درمیانی فضا۔
 کشادہ وادی۔ کشادہ میدان۔
 جَوّ البیت - گھر کا اندرونی حصہ۔
 جَوّ الماء - زمین کا وہ قطعہ جو
 پانی کے لیے کھودا جائے۔
 جَوّ کل شیء - ہر شے کا اندرونی
 اور داخلی حصہ۔
 ج۔ جَوّاء۔ و آجَوّاء۔
 الجَوّانی - جَوّ کی طرف منسوب۔
 اس کا مقابل بَدّانی ہے۔
 الجَوّۃ - مشک کا پیوند۔ زمین کا
 سخت ٹکڑا۔ پہاڑ وغیرہ کا
 گڑھا۔ لوہے کا زنگ۔ گندم گول
 رنگ۔

جَوْی - دس، جَوْی - غم یا عشق
 کے باعث سوزش و جلن کا پیدا
 ہونا۔
 الماء - پانی کا بدبودار ہونا۔
 الشیء - ناپسند کرنا۔
 جَوْیۃ نفسہ من البلد
 وعن البلد - ناموافق ہونا۔
 جَاوِی مُجَادَاۃً - بالابل۔ پانی
 پر بلانا۔
 اجتَوِی - البلد - کسی شہر میں
 اقامت کو ناپسند کرنا
 (استجوی)
 الطعام - کھانے کو ناپسند کرنا۔
 الجَوْی - مص۔ غم و عشق کے باعث
 پیدا ہونے والی سوزش و جلن۔ سینہ
 کی ایک بیماری۔ بیماری کا کھینچ جانا۔
 مبتلائے سوزش عشق۔
 الجَوّاء - کشادہ وادی۔ زمین کا اندرونی
 حصہ۔ چرواہے کا تھیلہ۔ وہ چیز جس
 پر ہانڈی رکھی جائے۔
 الجَوْی - بدبودار۔ عاشق۔ سوزش
 عشق کا دکھی۔
 الجَوْی - تنگ سینہ والا۔
 مؤث۔ جَوْیۃ۔
 الجَیۃ - بدبودار پانی وغیرہ جمع
 ہونے کی جگہ۔
 ج۔ جَبِی - جَاءَ یَجْبِی
 و یَجُوّ مَجْبِیًا و مَجْبِیۃً
 و جَبِیًا و جَبِیۃً۔ آنا۔
 بہ۔ لانا۔
 جاءۃ و جاء الیہ - آنا۔
 الشیء - کرنا
 صفت (جاء)
 مؤث۔ جَابِیۃ۔
 جَا آنی و جَا یآنی - کثرت آمد میں

مقابلہ کرنا۔
 آجاء کا۔ لانا۔ آنے کو لازم ٹھہرانا۔
 الجیشة۔ ایک مرتبہ کی آمد۔
 پیپ اور خون۔ ٹکڑا جس سے ہوتے
 میں پیوند لگایا جائے۔
 الجیشة۔ آنا۔ ج۔ جیات۔
 جاب (رض) جیبنا۔ البلاد۔
 ملک کو طے کرنا۔
 القیص۔ قمیص کا گریبان
 کاٹنا۔
 جیب۔ القميص۔ قمیص کا گریبان بنانا
 الجیب۔ من القميص۔ گریبان۔
 دل وسینہ۔
 ناصح الجیب۔ امین صادق۔
 جیب الارض۔ زمین میں داخل
 ہونے کی جگہ۔ ج۔ جیوب۔
 اور عوام کے نزدیک جیب اور
 جیبہ۔ پھیلی یا پاٹ کو کہتے ہیں۔
 اس کی جمع جیاب۔ ہے۔
 جاح۔ یجیح۔ جیٹا و جاتحة۔ اللہ
 القوم۔ جڑ سے اکھڑنا۔ ہلاک کرنا۔
 جاح۔ یجیح جیٹا۔ السیل الوادی۔
 سیلاب کا وادی کے کناروں کو بہا
 لے جانا۔
 جاد و جید یجاد و جیدا۔ گردن
 کا لمبا اور خوبصورت ہونا۔
 ج۔ آجیاد و جیود۔
 صفت۔ (آجید)
 مؤنث۔ جیداء و جیداۃ۔
 ج جود اور کبھی جید
 گردن کی صفت بن کر آتا ہے۔
 کہتے ہیں۔ ”عنق آجید“

جیر۔ الحوض۔ گچ کرنا۔ چونہ کی استر
 کاری کرنا۔
 جیر۔ حرف جواب ہے۔ نعم (ہاں)
 کے معنی دیتا ہے۔
 الجیر۔ گچ۔ چونہ۔ سیمٹ۔
 الجیاس۔ بے بجا چونہ۔
 (س) والجار (د) غصہ یا بھوک
 کے سبب سینہ کی سوزش۔
 حوض تجیر۔ گچ کیا ہوا حوض۔
 گہرا حوض۔
 جاشت (رض) جیشا و جیشانا
 و جیوشا۔
 القدس۔ ہانڈی کا المٹا۔
 البجر۔ سمندر کا جوش میں آنا۔
 الصد۔ سینہ یا دل کا مارے
 غصہ کے ابل پڑنا۔ جوش میں آنا۔
 الحرب بینہما لڑائی کا تیز ہوجانا
 العین۔ آنکھ کا آنسو بہانا۔
 الوادی۔ موج مارنا۔
 المیزاب۔ پرنالہ کا خوب اچھی
 طرح بہہ پڑنا۔
 النفس۔ جی مثلاً۔
 نفس الجبان۔ بھگنے کا راوہ کرنا
 جیش۔ الجیوش۔ فوجوں کو جمع کرنا۔
 تجیش۔ القوم۔ لوگوں کا جمع ہونا
 تجیشٹ نفسہ۔ دل مثلاً
 استجاش۔ الجیش۔ فوج
 جمع کرنا۔
 الامیر۔ امیر سے لشکر اور ملک
 مانگنا۔
 القوم۔ لوگوں کی مدد دینے پر
 براگینختہ کرنا۔

الجائشۃ۔ نفس۔
 الجیشۃ۔ جاش کا اسم مرہ۔
 ج۔ جیشات
 الجیش۔ لشکر۔ ج۔ جیوش۔
 الجیش۔ ایک قسم کی لمبی نبات کا
 نام ہے۔
 الجیاش۔ متحرک مضطرب۔
 جاض (رض) جیشا و جیش
 تجیشنا۔ عنہ۔ منحرف ہونا۔
 الگ ہوجانا۔ بچنا۔
 جایشہ۔ شان و شوکت میں مقابلہ
 کرنا۔
 الجیشۃ۔ دائیں بائیں بھکاؤ۔
 الجیش و الجیشی۔ متکبرانہ چال
 جاض (رض) جیشنا۔ متکبر سے
 چلنا۔ صفت۔ (جیشا ظ)
 بحملہ۔ بھاری بوجھ اٹھا کر چلنا۔
 جافت۔ جیشا و جیشٹ و تجیشٹ
 و اجتافت و الجافت۔
 الجیشۃ۔ لاش کا ٹر جانا۔ بدبودار ہونا۔
 الجیشۃ۔ سڑی مردہ لاش۔
 ج۔ جیش و آجیاف۔
 الجیش۔ لوگوں کا ایک گروہ۔ قوم۔
 صدی۔ ایک زمانہ کے لوگ۔
 ج۔ آجیال و جیلان۔
 الجیش و الجیشۃ۔ انگارہ ہلانے
 کی ٹکڑی۔ کرلینی۔
 صفاۃ جیش۔ بڑی چٹان۔
 الجیش۔ حروف بجا کا پانچواں
 حرف۔
 (مذکر و مؤنث) ایک قسم کا
 ریشمی کپڑا۔

ح

<p>مٹے اور گھڑوں کا بیچنے والا۔ یا بنانے والا۔</p> <p>المُحِبُّ - فَا. کہا جاتا ہے۔ امرأۃ مُحِبَّةٌ لزوجها و مُحَبَّةٌ حَبَّجَهُ (ض) حَبَّجًا بِالْعَصَاءِ لاطٹی سے مارنا۔</p> <p>(د) وَ أَحْبَجَ .</p> <p>الْأَمْرُ - اچانک ظاہر ہونا، نزدیک آنا۔ ظاہر ہونا۔</p> <p>حَبَّجَ (س) حَبَّجًا وَحَبَّجَ (ف) حَبَّيَا۔</p> <p>سُوجے ہوئے اور پھوٹے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ صفت۔ (حَبَّجٌ)۔</p> <p>الحَبَّجُ - مص. سُدہ کی شکل کی پیٹ کی بیگنیاں۔</p> <p>حَبَّجَ حَبَّجَةً. الماءُ - پانی کا آہستہ بہنا۔ تھوڑا بہنا۔</p> <p>— النارُ - آگ کا بھڑکنا۔</p> <p>الجَّحَابُ - پست قد۔ بد شکل۔ بد خلق ج۔ حَبَّاجٍ۔</p> <p>الحَبَّاجُ. اُمِّ حَبَّاجٍ - جُگنو۔</p> <p>جُگنو کے دم میں چمکتی ہوئی روشنی۔ اور اسی سے "نار الحَبَّاجِ" ہے جس کو صنعت و کمزوری میں بطور مثل کے استعمال کرتے ہیں "نار الحَبَّاجِ" گھوڑے کے سم سے اڑنے والی چنگاری جب وہ کسی پتھر پر زمین پر دوڑتا ہے۔</p> <p>المَحْبُوجُ - بری غذا کھانے والا۔</p> <p>الحَبَّجَةُ - تربوز۔ ج۔ حَبَّجٍ۔</p> <p>حَبَّذَا - یہ کلمہ حَبَّ "اور" ذَا "اسم اشارہ سے مرکب ہے۔ مدح کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ اپنی حالت نہیں بدلتا۔</p>	<p>وینار کا سولہواں حصہ۔ الحَبَّةُ الخَضْرَاءُ - گندہ جروہ کے درخت کا پھل۔ الحَبَّةُ السَّوْدَاءُ - کلونجی۔</p> <p>المَحَبَّةُ - ایک مرغوب شے کی طرف طبیعت کا میلان۔</p> <p>الحُبُّ - مص. دوست۔ عاشق۔ محبوب ج۔ أَحْبَابٌ وَ حَبَّانٌ وَ حَبَّيْہُ وَ حُبٌّ وَ حُبُوبٌ۔</p> <p>الحُبُّ - مص. بڑا کڑا یا مٹکا۔</p> <p>ج۔ حَبَّابٌ وَ حَبَّيْہُ وَ أَحْبَابٌ الحَبَّةُ - انگور کا بیج۔ محبوب۔ محبوبہ۔ ج۔ حُبٌّ۔</p> <p>کتے ہیں "لِذَا حَبَّيْتُ" یعنی وہ چیز ہے جس کا دل جانا آپ کو پسند ہے۔ "وَنَعْمَ وَحْبَةٌ كَرَامَةٌ" جس طرح کہا جاتا ہے حُبًّا وَ كَرَامَةً۔</p> <p>الحَبَّبُ - وائتوں کی برابر قطار۔ (وَالْحَبَّابُ) بُلْبُلٌ۔ حَبَّبَ الماءُ او الرَّمْلُ وَ حَبَّبَهُ پانی یا ریت کا بڑا حصہ۔</p> <p>الحَبَّابُ - انتہاء۔ غایت۔</p> <p>کتے ہیں۔ حَبَّابُكَ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا - یعنی تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔</p> <p>الحَبَّابُ - دوستی۔ محبت۔ سانپ اُمِّ حَبَّابٍ - دنیا۔</p> <p>الحَبَّابَةُ - ایک سیاہ آبی کپڑا۔ ج۔ حَبَّابٍ۔</p> <p>الحَبِيبُ - حُب۔ محبوب۔ ج۔ أَحَبَّہُ وَ أَحْبَاءُ وَ أَحْبَابٌ۔</p> <p>الحَبَّابُ - حَبَّ کا اسم مبالغہ۔ کھار</p>	<p>حَبَّيْہُ (ض) حَبَّيًّا وَ حَبَّيًّا - محبت کرنا — الشَّيْءَ - رَغْبَتِ کرنا۔</p> <p>حَبَّ (ض) وَ حَبَّبَ (ك) - محبوب ہونا پیارا ہونا۔</p> <p>حَبَّيْہُ - المی - پیارا بنانا۔ محبوب بنانا۔</p> <p>کتے ہیں "حَبَّيْنِي أَيَاہُ" اس نے مجھ کو اس کا محبوب بنایا۔</p> <p>حَبَّيْ القَرْبَةِ مُشْكٌ بَهْرًا۔</p> <p>حَبَّبَ وَ أَحَبَّ الوَسْخُ كَمِيْنِي كَا وَاندار ہونا۔</p> <p>حَابَّہُ حَابَّةٌ وَ حَبَّيَّا۔ باہم محبت و الفت کرنا۔ دوستی کا اظہار کرنا۔</p> <p>أَحَبَّہُ - بمعنی حَبَّہُ لیکن یہ حُب سے زیادہ مستعمل ہے۔</p> <p>صفت فاعلی رُحْبٌ مَحْبُوبٌ وَ مُحَبٌّ۔</p> <p>تَحَبَّبَ - الیہ - کسی سے محبت و دوستی کا اظہار کرنا۔ تَحَبَّبَ مِنْ اَثْرَابٍ - بھرنے سے مٹنے کے مانند پھول جانا۔</p> <p>تَحَابَّ - الْقَوْمُ - لوگوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا۔</p> <p>اسْتَحَبَّہُ - محبت کرنا۔ پسند کرنا۔</p> <p>کہا جاتا ہے۔ اسْتَحَبَّتِ الْكُفْرُ عَلَى الْإِيْمَانِ - اس نے کفر کو ایمان پر فضیلت دی۔</p> <p>الحَبُّ (ج) حُبُوبٌ وَ حَبَّانٌ - دانہ واحد حَبَّةٌ ج۔ حَبَّاتٌ۔</p> <p>حَبُّ الْخَمَامِ او رَجَبَةُ الْقَلْبِ دل کا دانہ یا روح۔ الحَبَّةُ دو جو کے برابر ایک وزن کا نام ہے۔</p>
---	---	--



حَبْدَة کسی سے حبذا کہنا۔
 حَبْرَان، حَبْرًا - الشَّيْءُ زینت
 دینا، آراستہ کرنا، منقش کرنا۔
 حَبْرَة (ن)، حَبْرًا وَحَبْرَةً وَاحِبْرَةً -
 خوش و مسرور کرنا۔
 احبوت الارض - زمین میں
 پیداوار کا زیادہ ہونا۔
 حَبْرًا، حَبْرًا وَحَبْرًا - خوش ہونا۔
 (— حَبْرًا) الحبر زخم کا
 اچھا ہونا اور کچھ اثر باقی رہنا۔
 الاسنان - دانتوں کا زرد ہونا۔
 الارض - زمین کا خوب پیداوار
 اگانا۔ خوب سرسبز ہونا۔
 حَبْر - الدواة - دوات میں روشنائی
 ڈالنا۔ — الکلام والخط
 او الشعر - کلام، خط یا شعر کو عمدہ
 بنانا۔
 حَبْر - پسوں کے کاٹے کا نشان والا
 ہونا۔
 تَحَبَّر - مزین ہونا، عمدہ ہونا۔
 المسحاب - ابر کا ظاہر ہونا اور
 پھیل جانا۔
 الحبر والحبر - نیک عالم، خوشی و نعمت
 دینی پیشوا۔ الحبر الأعظم
 پوپ۔ یہودیوں کے نزدیک کاہنوں
 کا سردار۔ ج۔ احباس۔ وحبوس
 الحبر - روشنائی، خوبصورتی۔
 نقش و نگار۔ دانتوں کی زردی۔
 ج۔ حبوس۔ کہتے ہیں فلان حسن
 الحبر والسبر - یعنی فلان اچھی
 بیعت و شکل والا ہے۔ و فلان
 ليس له حبر - فلان کا کوئی
 مثل و نظیر نہیں۔ وَذَهَبَ حَبْرَهُ
 و سبرہ - یعنی اس کا حسن اور اس
 کی خوش روئی جاتی رہی۔

الحبر - مص - اثر۔
 الحبرة - بتثلیث الحاء - دانتوں
 کی زردی۔
 الحبرة والحبرة - ایک قسم کی
 یعنی چادر۔ ج۔ حَبْرَات وَحَبْرَات
 وَحَبْر -
 الحبرة - درخت کی گانٹھ۔
 الحبرة - خوشی، نعمت، عمدہ، راگ۔
 الحبر والحبر - من ایشاب - نیا
 و نرم کپڑا منقش چادر۔ حَبْر کی
 جمع حَبْر ہے۔
 الحباس۔ ج۔ حَبَارَات - و الحبر
 ج۔ حبوس - نشان، اثر۔ کہتے
 ہیں "مجلدة حَبَار الضم" اس
 کی جلد پر چٹ کا نشان ہے۔ "فی
 يده حَبَار العمل" اس کے ہاتھ
 میں کام کا اثر و نشان ہے۔
 الحبرة والحبرة والحبرة
 دوات۔ ج۔ تحاير۔
 الحبوسة - امامت۔
 الحباری - سرخاب۔ ج۔ حَبَارَات -
 الحبروس والحبريد - سرخاب
 کا چوڑا۔ ج۔ حَبَارِيد -
 حسہ (ض)، حسًا و حَسًا - قید
 کرنا۔ عن الشيء - منع کرنا۔
 الشيء - پورے طریقہ سے
 حفاظت کرنا۔ الشيء بالشيء -
 ڈھانپنا یا احاطہ کرنا۔ المال علی
 كذا - مال وقف کر دینا۔
 احبس وحبس - المال - مال کو
 اللہ کے راستہ میں وقف کر دینا۔
 حباسة - تحايسة - روکے رکھنا
 حراست میں رکھنا۔
 تحبس و احتبس - فی الکلام - کلام
 میں رک جانا — علی کذا

محدود رکھنا۔ و احتبسہ - روک
 رکھنا (لازم و متعدی)، احتبس۔
 الرجل - روکنا۔ قید کرنا۔
 الحبس - حبوس۔ و الاحتبس۔ ج۔
 تحاير۔ قید خانہ۔ جیل۔
 الحبس - بچھونے کے اوپر کا پردہ۔
 لکڑی یا پتھر کی ڈاک۔ ج۔ احباس۔
 الحبس - و امدحایس (الحبس)
 واحد۔ حبوس یا حبیس۔
 پیادے، بروقت شدہ شئی۔
 الحبسة گفتگوں رکاوٹ و دشواری
 الحباسہ - الحباس کا مؤنث۔ وہ اونٹ
 جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے
 گھر پر باندھ کر رکھے جاتیں۔
 الحباس - گھر پر باندھ کر رکھے جانے
 والے شریف النسل اونٹ۔ کارخیر
 میں وقف کی ہوئی چیز یہ "حبیسة"
 کی جمع ہے۔
 الحبیس - قیدی۔ — من الخیل
 جہاد کے لیے وقف کیا ہوا گھوڑا۔
 ج۔ حبس۔ دنیا سے کنارہ کش
 ہو کر گوشہ عزلت اختیار کرنے والا۔
 ج۔ حبساء۔
 الحبسة - قید خانہ، عابدوں، زاہدوں
 کا گوشہ عزلت۔ ج۔ تحاير۔
 حبش (ن)، حبشًا و حبشًا و
 حبشًا و احتبش - الشيء -
 جمع کرنا۔
 احبشت - المرأة - عورت کا حبشی
 بچہ بننا۔
 تحبش - القوم - لوگوں کا اکٹھا
 ہونا۔
 الحباشة۔ ج۔ حباشات و الاحبوش
 و الاحبوشة۔ ج۔ آحا پیش۔
 — مختلف قبیلوں کے لوگوں کا گروہ۔

الْحُبْشُ وَالْحَبْشَةُ - ملک حبش کا باشندہ - واحد (حَبْشِي)، ج. حُبْشَان -

— الْحَبْشَةُ - ملک حبش جو آجکل کی جغرافیہ میں "ابی سینیا" کے نام سے مشہور ہے -

الْحَبْشِيَّة - سخت سیاہ اونٹ - سیاہ رنگ - بڑے جثہ کی چیونٹی -

الْحَبْشِيَّة - عقاب - الْأَحْبَش - حبشی - ج. أَحَابِش -

حَبْض (ض) حَبْضًا وَحَبْض (س) حَبْضًا - القلب - دل کا سخت دھڑکنے کے بعد ساکن ہو جانا -

— الدَّجَل - مرجان -

السَّهْم - تیر کا تیر انداز کے سامنے ہی گر جانا اور سیدھا نہ جانا -

فَلَانٌ بِالْوَتْرِ - تار بجانا - آواز نکالنے کے لیے حرکت دینا -

حَبْض (ن ض) حَبْضًا - ماء البئر - کنویں کا پانی گھسٹ جانا -

حَقَّة - حق تلف ہونا -

السَّهْم - تیر کا تیر انداز کے سامنے گر کر رہ جانا اور سیدھا نہ جانا -

الْغَلَامُ - لڑکے کا لوگوں کے نیک گمان کے خلاف نکلنا -

أَحْبَضَ - حَقَّة - حق باطل کرنا - البئر - کنویں کا پانی ختم کرنا -

الحَبْض - رگ کی تیز دھڑکن - شدت کی حرکت کہتے ہیں "ما به حَبْضٌ وَلَا نَبْضٌ" یعنی اس میں جس و حرکت نہیں -

الْحَبْضُ - دھننے کی گمان - شدت نکالنے کی لکڑی - ج. حَبَابِض (مجاہد) -

رجلٌ حَابِضٌ وَحَبَابٌ - کنجوس و بخیل آدمی -

حَبْط (س) حَبْطًا وَحُبُوطًا - عَمَلُهُ - عمل بے کار ہونا - خراب ہونا - برباد ہونا -

(— وَاحِبْط) ماء البئر - کنویں کا پانی ہمیشہ کے لیے کم ہو جانا - حَبْط - دَمُ القَتِيل - مقتول کا خون رائیگاں جانا -

حَبْطُ البعير حَبْطًا - خندق نامی نبات کے کھلنے سے اونٹ کا پیٹ پھول جانا - صفت (حَبْط) - ج. حَبَا طَى - اور اس شکایت کا نام حَبَاط ہے -

أَحْبَطَ - عَمَلُهُ - بیکار و باطل کرنا - أَحْبَطَ الضُّرْبُ زَيْدًا - چوٹ کا نشان چھوڑنا -

أَحْبَطَ عَنْهُ - روگردانی کرنا - قرض کرنا کہتے ہیں - "تعلق به ثم احبط عنه" یعنی پہلے اس کا تعلق اس سے ہوا پھر اس نے روگردانی کی -

الحَبْط - مص - بدن پر زخم یا کوڑے کا نشان - مار کے سبب سوجن -

الحَبْطِي - موٹا و پست قدر غصے میں بھرا ہوا -

حَبَقَهُ (ض) حَبَقًا - مارنا - حَبَقَ (ض) حَبَقًا وَحَبَاقًا -

العنز - بکری کا گوز کرنا - اس کا زیادہ تر استعمال بکری اور اونٹ کے لیے ہے -

حَبَقَ - المَنَاع - جمع کرنا - مضبوط کرنا -

أَحْبَقَ - تابعدار ہونا - مطیع ہونا - حَبَقُوا وَتَحَابَقُوا - علیہ - بیوقوفی کا برتاؤ کرنا - جہالت سے کام لینا -

الحَبَق - پودینہ - واحد - حَبَقَهُ - حَبَقَ المَاءَ - نہری نعتاع - حَبَقَ البَقَر - بالونہ -

حَبَقَ الفَتَى والفَيْل - مرز بخروش الحَبَق والحَبَقَةُ - کم عقل - کہتے ہیں رجلٌ حَبَقَةٌ - جاہل آدمی -

الحَبَق - بے خیر آدمی - حَبَكُهُ (ن ض) حَبَكًا - باندھنا مضبوط کرنا - الحَاكُ الثوب - جو لاپے کا کپڑے کو کار بگری سے بننا - عمدہ بننا -

حَبَكُهُ - مضبوط کرنا - أَحْبَكُهُ - مضبوط کرنا - اچھے طریقہ سے کرنا - تَحَبَّكَ - کمر باندھنا - کپڑے میں لپٹنا -

أَحْبَكَ - الثوب - کپڑا عمدہ بننا - بالاناس - ازار باندھنا -

الحَبَكَةُ - ج. حَبَكٌ وَحَبَاك - ج. حُبْك - کمر بند - پٹکا - ریت کے ٹیلے پر کاراستہ -

الحَبِيك - بنا ہوا مضبوط کیا ہوا - الحَبِيكَةُ - الحَبِيك کا مؤنث - ہریت کے ٹیلے کا راستہ - ستاروں کے درمیان کا راستہ - بالوں کے کچھے کی ایک لٹ -

لوسے کی زرہ - ج. حَبَائِك وَحَبِيك وَحُبْك - کہتے ہیں "والسَّمَاءُ ذَاتُ الحُبْك" -

قسم ہے آسمان راستوں والے کی - المَحْبِك - ازار باندھنے کی جگہ - حَبَكِرَ - الشَّيْءَ - جمع کرنا -

تَحَبَكِرَ - فی طَريقه - حیران ہونا - حَبَلَهُ (ن) حَبَلًا - رسی سے باندھنا -

الصَّيْدَ - شکار کو پھندے سے پکڑنا - صفت (حَابِل) -

حَبَلَت (س) حَبَلًا - المَرْأَةُ - حاملہ ہونا - صفت (حَابِلَةٌ) - ج. -

حَبَلَةٌ وَحُبْلَى - ج. حُبَالَى وَحَبَلِيَّات وَحَبَلَانَةٌ -

من المَاءِ - بھر جانا - صفت

حَبَلَت (س) حَبَلًا - المَرْأَةُ - حاملہ ہونا - صفت (حَابِلَةٌ) - ج. -

حَبَلَةٌ وَحُبْلَى - ج. حُبَالَى وَحَبَلِيَّات وَحَبَلَانَةٌ -

من المَاءِ - بھر جانا - صفت

حَبَلَت (س) حَبَلًا - المَرْأَةُ - حاملہ ہونا - صفت (حَابِلَةٌ) - ج. -

حَبَلَةٌ وَحُبْلَى - ج. حُبَالَى وَحَبَلِيَّات وَحَبَلَانَةٌ -

من المَاءِ - بھر جانا - صفت



(حَبْلَان)

حَبْلَهَا وَأَحْبَلَهَا - حاملہ کرنا۔
 أَحْبَلَ النخل - گاجھا دینا۔
 أَحْبَلَ الصید - شکار کو چھندے سے پکڑنا کہتے ہیں۔ "أَحْبَلَهُ الموتُ بِحَبْلٍ ثَلْثٍ" موت نے اس کو اپنے پھندے میں لے لیا۔ (وَيَحْبِلُ) الصیدُ - شکار کا پھندے میں پھنسا۔ الدابةُ - جانور کی ٹانگوں کا رسی میں پھنس جانا۔
 الحبل - رسی۔ باندھنے کی چیز۔ ج۔
 حَبَالٌ وَأَحْبِلٌ وَحُبُولٌ وَحَبَالٌ - ملاپ، عمد و سمر، ریت کا لمبا قطعہ، رگ بدن جیسے حبل الذراع و حبل الوريد۔
 کہتے ہیں "هو على حبل ذراعك" وہ تم سے قریب ہے واصل زید حبل عمری و — زید نے اپنی لڑکی کی شادی عمرو سے کر دی۔ "وهو يحطب في حبل فلاين" یعنی وہ اس کی مدد و اعانت کرتا ہے۔ "وصرم حباله" اس نے تعلقات توڑ لیے۔
 الحبل - مص - انگور کی بیل یا اس کی شاخیں۔ واحد حبلۃ - ج۔
 أَحْبَالٌ - بھر جانا۔ غم و غصہ حمل الحبل - بڑا ہوشیار عالم بڑا چالاک و مکار۔ ج۔ حُبُولٌ۔
 الحابل - شکاری۔ جادوگر۔ کپڑے کا تانا۔

اختلط الحابل بالنايل - یہ ضرب المثل اس وقت بولی جاتی ہے جبکہ کوئی معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہو۔ بعض کے نزدیک اس مثال میں "حابل" سے مراد تانا ہے اور "نايل"

سے بنا۔ بعض کہتے ہیں کہ حابل سے مراد چھندے سے شکار کرنے والا۔ اور کہا جاتا ہے۔ "داس حابل علی نابلہ" یعنی اس کا اول آخر پر گھوم گیا۔ "وئاس حابلہم علی نابلہم" یعنی انھوں نے اپنے درمیان شر و فساد برپا کر لیا۔ وَحَوْلٌ حابلہ علی نابلہ" یعنی اس نے اوپر کا نیچے کر دیا۔

الحابل - درخت پر چڑھنے کے لیے چھال کی رسی۔
 الحبال - بھر جانا۔ کہتے ہیں۔ بلہ حبال من الشراب۔

الحبالۃ - پھندا۔ ج۔ حبال۔
 الاخبول والابخولة - پھندا۔
 الحبالۃ - کسی چیز کا مناسب وقت بوجھ۔

الحبال - رسی بنانے والا یا بیچنے والا۔
 الحبلان - بھرا ہوا۔ غصہ و کینہ سے بھرا ہوا۔ مؤنث۔ حبلانۃ۔

المحبيل - حمل کی مدت۔
 المحبيل - رسی۔ شعور محبيل۔ بٹے ہوئے بال۔
 محبيل - الفرس۔ گھوڑے کی ٹانگ اور کھڑ کا جوڑ۔

حَبَنَ (ض) حَبْنًا وَحَبْنًا - بڑے سوچے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ صفت (حَابِنٌ وَحَبُونٌ وَأَحْبَنٌ) علیہ۔ کسی کے خلاف غصہ سے بھر جانا۔

أَحْبَنَهُ الداءُ - سوچے ہوئے پیٹ والا کر دینا۔
 الحبن والحبن - کنیر کا درخت۔
 أم حبین والحبینۃ - گرگٹ کے

مثابہ ایک جانور۔

الحبن - بندر۔ پیپ سے بھرا ہوا پھوڑا۔ ج۔ حُبُون۔
 حَبَانٌ (حَبْوٌ) - نزدیک ہونا۔ کہتے ہیں۔ حَبَوْتُ اِلَى الْخَمْسِينَ - میں پچاس سال کے قریب ہو گیا۔
 - الولد - بچہ کا سرین کے بل گھسنا۔
 - السفینۃ - کشتی کا چلنا۔
 "حَبَانًا حَوْلَهُ" حفاظت کرنا اور منع کرنا۔ الشئ لہ - پیش آنا۔
 - السهم - تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔
 - کذا و بکذا - بغیر بدلہ کے دینا۔
 - عن کذا - منع کرنا۔

حَبَاءٌ - حفاظت کرنا۔ منع کرنا۔
 حابی - محاباة و حباء۔
 الوجل - کسی کی مدد کرنا۔ طرفداری کرنا۔
 ۵ فی البیع - بیع میں سہولت برتنا۔
 القاضی زیدًا فی الحكم۔
 انصاف چھوڑ کر مائل ہونا۔ جھکا۔

احبی - الراحی - تیر انداز کے تیر کا نشانہ خطا کر جانا کہتے ہیں "رفی فاحبی" اس نے تیر پھینکا مگر نشانہ پر نہ لگا۔
 احْتَبَى - اِخْتَبَاۃً - بالشوب - کپڑے میں لپٹ جانا۔ پاؤں پر پیٹھ کھٹانوں اور پیٹھ کو کپڑے سے باندھ کر سہارا لینا۔

الحباء - والحبوة والحبوة - عطیہ۔
 بخشش۔ الحباء - عورت کا مہر۔
 الحبوة والحبوة - وہ کپڑا جس سے بیٹھنے کے وقت پیٹھ اور ٹانگوں کو باندھ کر سہارا لیا جاتا ہے۔ ج۔

حَبِيٌّ وَحَبِيٌّ - الحبی والحبا - گہرا دل جو زمین کے نزدیک ہو۔

الحَالِي - گردن تک اٹھے ہوئے کندھوں والا۔

حَتَّ (ن) حَتًّا - الشجر - درخت کے پتے بھاڑنا۔ چھال اتارنا۔ الشئ عن الثوب - کپڑے پر سے کیچڑ وغیرہ مٹ کر چھڑانا۔ عن الشئ - ہٹا دینا۔ الورق ادا القشر - پتے بھاڑنا یا چھال کرنا۔

تَحَاتَّ تَحَاتًّا وَالدَّحْتَ الدَّحَاتًا - درخت سے پتے بھڑنا۔ شعرة عن راسه - سر کے بال گرنا۔ الاسنان - دانتوں کا کھوکھلا ہو کر گر جانا۔

الحَتَّ - مص - مردہ ٹڈی - الفرس الحَتَّ - تیز رفتار گھوڑا۔ ج۔ احتات - کہتے ہیں: "ترکوهم حَتًّا بَتًّا" یعنی انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ "وما فی یدی منہ حَتًّا" اَوْحَاتًا "اس میں سے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ الحَتَّت - درخت کا ایک روگ جس سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ الحَتَات - بکھری ہوئی چیز۔ چورہ۔ ریزہ۔ الحَتَات - شور و غل۔ الحَتَوْتُ وَالْحَتَات - من النخل - وہ کھجور کا درخت جس کا کچا پھل گر جائے۔

حَتَّى - یہ کئی طرح استعمال ہوتا ہے۔ (۱) یعنی حرف انتہاء جیسے اکلْتُ السمكة حتى راسها۔ یعنی میں نے مچھلی کو اس کے سر تک کھایا دگویا سر نہیں کھایا۔

(۲) مضارع پر داخل ہو کر نصب دیتا ہے جیسے - اجتمع حتى

أَفَوْشَ - یعنی کامیاب ہونے تک میں کوشش کرتا رہوں گا۔

(۳) علت یا وجہ بنانے کے لیے۔ جیسے - تَرَهَّبْتُ حَتَّى أَلُوبَ - میں نے توہر کرنے کے لیے رہبانیت اختیار کی۔

(۴) حرف عطف بمعنی واؤ۔ جیسے - اکلْتُ السمكة حتى راسها۔ میں نے مچھلی کو اس کے سر کو کھالیا۔

(۵) حرف ابتداء جیسے فوای عجباً حتى كليب تسبني۔ بڑا تعجب ہے کہ کلب مجھے گالی دینے لگے۔

حَتَّامًا - کب تک۔ اس کی اصلیت حتی ما ہے ما استفہامیہ کا الف حذف کر دیا گیا ہے۔

حَتًّا (ن) حَتًّا وَاحْتًا - العُقْدَة - گرہ باندھنا۔ الثوب - کپڑا سینا۔ الجَداس - دیوار مضبوط کرنا۔ الشئ - لگاتار دیکھنا۔ الجبل عن الدابة - بوجھ جانور پر سے اتار لینا۔

حَتَّحَت - جلدی کرنا۔ تَحَتَّحَت - الورق - جھڑنا۔ گرنا۔ حَتَّد (س) حَتَّدًا - خالص الاصل ہونا صفت (حَتَّد)

حَتَّد (ن) حَتَّدًا - بالمكان - اقامت کرنا۔

حَتَّد - الشئ - کسی شے کے خالص اور نفیس ہونے کی وجہ سے اس کو چن لینا۔

الحُتْد والحَتْد - من الشئ - اصل و جوہر کہتے ہیں "عین حُتْد"

وہ چشمہ جس کا پانی ختم نہ ہوتا ہو۔ المَحْتَد - اصل - کہتے ہیں فَلَان کَرِيم المَحْتَد - فَلَان کو پیر الاصل ہے۔ حَتَّر (ن) حَتَّرًا وَحَتُّورًا - باندھنا۔ اور مضبوط کرنا۔ تیز نگاہ سے دیکھنا۔ خوراک کھانا دینا۔ یا بخشش میں کمی کر دینا۔ حَتَّوْلَهُ شَيْئًا - مٹوڑا دینا۔ اھلہ - اہل و عیال کے نان نفقہ میں تنگی کرنا۔ کہا جاتا ہے وَاحْتَرْتُ اليوم شَيْئًا - آج مجھ کو کچھ نہیں ملایا میں نے آج کچھ نہیں کھایا۔ أَحْتَر - الشئ - مضبوط کرنا۔ الرجل - آدمی کا تھوڑی بھلائی اور بخشش والا ہونا۔ علینا الرزق - رزق کم کرنا۔ یا روک لینا۔

حَتَّر - نان نفقہ میں کمی کرنا۔ البیت - گھر کے گرد گھیرنا۔ الحَتْر والحَتْر والحَتْر - تھوڑی چیز۔ تھوڑی بخشش۔

حَتَّار - الشئ - کنارہ۔ شئ - گھیرا۔ حَتَّار الأذن - کان کا کنارہ۔ حَتَّار الطفر - ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔ حَتَّار المنخا والغربال - چھلنی کا گھیرا۔

الحَتْرَة - بچہ کا ایک بار دودھ پوسنا۔ الحَتِيرَة - بعض کے نزدیک الحَشِيرَة - وہ کھانا جو عمارت کے تیار ہونے پر کھلایا جاتا ہے۔

حَتْرَش - حَتْرَشَة - الجَوَاد - ٹڈی کا کھانے میں آواز نکالنا۔

تَحَتْرَش - القوم - اکٹھا ہونا۔ جمع ہونا۔ الحَتْرُوش - چُست لڑکا۔

الحَتَّارَش - بچہ کی حرکتیں۔ کہتے ہیں "ما احسن حَتَّارَش هذا الصبی" اس بچہ کی حرکتیں کیسی پیاری، اور



بھلی ہیں۔
تَحْتَرَفُ - الشَّيْءُ بَكَهْرَ جَانَا۔ کتے ہیں۔
تَحْتَرَفُ الشَّيْءُ مِنْ يَدِي - چیز میرے ہاتھ سے بکھر گئی۔
الْحَتْرَفَةُ - آنکھ کی سُرخمی، خشونت۔
الْحَتَفُ - موت۔ کتے ہیں مَاتَ حَتَفَ
انفہ او حَتَفَ فِيهِ - وہ بغیر کسی کے مارنے کے اپنی طبیعت سے مرا۔ ج۔ حُتُوفٌ۔
حَتَكَ (ض) حَتَكَ وَحَتَكَ نًا وَ تَحَتَكَ - چھوٹے اور تیز تیز قدموں سے چلنا۔
الْحَتَكَ وَالْحَوَاتِكُ - شتر مرغ کے بچے۔
حَتَلَهُ (ن) حَتَلًا - دینا۔
الْحِتْلُ وَالْحَاتِلُ - مثل، مشابہ۔
حَتَمَ (ض) حَتَمًا - الشَّيْءُ مَضْبُوطًا كَرْنَا -
— الشَّيْءُ عَلَيْهِ - واجب کرنا۔
— بِالْشَّيْءِ - کسی چیز کا حکم لگانا۔
فیصلہ کرنا۔
تَحَتَّم - ہشاش بشاش ہونا۔ اظہار شادمانی کرنا۔ دسترخوان کے بچے ہوئے کو کھانا۔ الزجاج بعضہ علی بعض - شیشہ کا بعض بعض پر گر کر چکنا چور ہو جانا۔ د۔
والحتم (الامر) فیصلہ کا ایسا لازمی ہونا کہ اس کا خلاف ناممکن ہو۔ تَحَتَّم الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ - اپنے اوپر لازم کر لینا۔ واجب کر لینا۔
الحایم - فاعل۔ حاکم۔ کتے ہیں۔ حتم الحایم بکذا حاکم نے اس چیز کا فیصلہ دیا۔ کالا کوا۔
الحکم - خالص کہا جاتا ہے ہوا الخ الحنم - وہ سکا اور حقیقی بھائی۔

وہذا اول دحتم۔ یہ حقیقی لڑکا ہے جس کے نسب میں کوئی شک نہیں۔ فیصلہ۔ ج۔ حُتُوم۔
الْحُتْمَةُ - سیاہی۔ الاحتم۔ سیاہ۔ کالا۔
حَتَنَ (س) حَتَنًا - الْحَوُّ - گرمی کا شدید ہونا۔
أَحْتَنَ - الرجلُ کسی کے سارے تیروں کا ایک ہی جگہ پڑنا۔
تَحَاتَنَ - الْقَوْمُ - فی الامر۔ کسی امر میں سب کا برابر مساوی ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ لِحَاتَنَ الدَّمْعُ - یعنی آنسوؤں کے دو دو قطرے گرے و تَحَاتَنَتِ الرِّیَاحُ - مختلف الجہت ہوائیں بے درپے چلیں۔
أَحْتَنَ - بالکل برابر ہونا۔
الْحَتْنُ وَالْحِثْنُ - مساوی۔ ایک جیسا۔ ساتھی۔ کہا جاتا ہے۔ ہما حَتَنَانِ - وہ دونوں برابر ہیں۔
یوم حاتن - وہ دن جس کا اول آخر گرمی میں برابر ہو۔
حَتَانِیَحَتُو حَتَوًا - بہت تیز دوڑنا۔
حَتَارِضٌ - حَتِيًّا وَاحْتَاةً - سینا۔ مضبوط کرنا۔ الحبل - رسی بٹنا۔
فَرَسٌ (مِثْلًا) - الْخَلْقُ - مضبوط ہاتھ پیر کا گھوڑا۔
حَتَّ (ن) حَتًّا وَحَتَّتْ تَحْتِیثًا - وَاحْتَّ احْتَاثًا وَاحْتَّتْ احْتِثَاثًا وَاسْتَحْتَاثًا -
الرجل علی الامر۔ کسی کو کسی امر پر اکسانا۔ برا نگینہ کرنا۔
حَافَةً - برا نگینہ کرنا۔ اکسانا۔ ابھارنا۔
تَحَاتَّ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کو اکسانا۔
أَحْتَّتْ - برا نگینہ - (لازم و متعدی)

الْحُثَّ - بھوسے کے ریزے۔ خشک روٹی۔ چھلتا ہوا ریت۔
الْحَثِیثُ وَالْحُثُوثُ - تیز۔ کتے ہیں۔
”وَلَّى حَثِیثًا“ - وہ تیزی سے واپس پھرا۔
الْحَثَاثُ وَالْحِثَاثُ - تیزی۔ تھوڑی دیر۔
چھکی۔ کہا جاتا ہے مَا أَكْتَثَلَ فُلَانٌ حَثَاثًا - اس نے ذرا سی نیند بھی نہیں لی۔
حَثَحَثَ - الْبَرَقُ - بجلی کا بادل میں کودنا۔ فُلَانًا - کسی کو اکسانا۔ برا نگینہ کرنا۔ الْمِیْلُ فِي الْعَيْنِ - سرمہ کی سلائی کو آنکھ میں ہلانا۔
تَحَثَحَثَ - الْقَوْمُ - تیار ہونا۔ آمادہ ہونا۔
الْحِثْحَاثُ وَالْحُثُوثُ - بہت جلدی کرنے والا۔
حَثَرُ (س) حَثَرًا - الْجِلْدُ - جلد کا پھنسی دار ہونا۔ الْعِیْنُ - آشوب چشم سے آنکھ کا متورم ہونا۔
ٹوٹے پھوٹے والی ہونا۔ الْعِصْلُ - شہد کا خراب ہونے کے سبب دانہ دار ہونا۔ صفت (حَاثِرٌ وَ حَثَرٌ) - الشَّيْءُ - کشادہ ہونا۔ صفت (حَثِرٌ وَ حَثَرٌ) -
حَثَرٌ - الدَّوَاءُ - دوا کی گولی بنانا۔
أَحَثَرُ وَتَحَثَرُ - النُّخْلُ - کھجور کا پھل لانا۔
الْحَثَرُ - مَصْ - تلچھٹ۔ انگور کا دانہ جو ابھی ظاہر ہوا ہی ہو۔
الْحَثَرُ - پھنسی والا۔ طَعَامٌ حَثَرٌ - کھجور ہوا کھانا جس میں کوئی خیر و برکت نہ ہو۔
فَوَادٌ حَثَرٌ - وہ دل جو یاد نہ رکھ سکے۔
حَثَرِبُ - الْمَاءُ - پانی کا کدھر ہونا۔ گدلا ہونا۔ الْبَثَرُ - کنویں کا گدے



<p>الحَجَّة - حج کا اسم۔ سال۔ ذو الحَجَّة - قمری سال کا آخری مہینہ۔ ج - ذوات الحَجَّة۔ الحِجَّة - کان کی لو۔ الحِجَّة - بالی۔ کان کی لو۔ الحِجَّة - دلیل۔ حُجَّت - ج - حُجَج۔ وَحِجَج۔ الحِجَاج - ابرو کی ہڈی۔ ج - حُجُج۔ وَحِجَج۔ حِجَاجُ الشَّمْس - آفتاب کا کنارہ۔ الحِجِيج - دلیل سے غالب آنے والا۔ وہ شخص جس کا زخم سلائی ڈال کر ٹپٹلا جائے۔ المَحَجَّة - حج کرنے کی جگہ۔ المَحِجَّة - رات کا بیچ۔ ج - مَحَاج۔ المَحِجَاج - بڑا جھگڑا۔ زخم ٹپٹلنے کی سلائی۔ المَحْجُوج - دلیل میں ہارا ہوا۔ مطلوب مقصود۔ حج کرنے کی جگہ۔ حَجَّاء - فاعل۔ حَجَّاء - بالشئ - خوش ہونا۔ عندہ الشئ - روکنا۔ حَجَّاء (س) حَجَّاء وَحَجَّاء وَتَحَجَّاء۔ بالشئ - بخل کرنا۔ فریفتہ ہونا۔ الحِجَّاء - لائق۔ قابل۔ سزاوار۔ کتے ہیں ہو حَجَّاء بَدَأ - وہ فلاں چیز کے لائق ہے۔ پناہ لینے والا۔ کتے ہیں۔ ہو حَجَّاء البہم - وہ ان کے پاس پناہ لینے والا ہے۔ المَحْجَّاء - جائے پناہ۔ حَجَّاء (ن) حَجَّاء وَحَجَّاء وَحَجَّاء۔ چھپانا۔ پردہ کرنا۔ اندر آنے سے روکنا۔ حَجَّاء بَيْنَهُمَا - درمیان میں شامل ہونا۔ تَنَكَّ - ہونا۔ کتے ہیں۔ فُلَانٌ يَحْجِبُ الْأَمِيرَ - فلاں امیر کا</p>	<p>ڈالی ہوئی مٹی۔ الْحَشَوَاء - بہت مٹی والی زمین۔ الحِثِّي - مص مٹی وغیرہ کا لپ۔ ج۔ حِثِيَات۔ حَجَّاهُ (ن) حَجَّاء - دلیل میں غالب آنا۔ الجُرح - زخم میں سلائی ڈال کر ٹپٹلنا۔ ہ - قعد کرنا۔ کما جاتا ہے۔ حَجَّاء بَنُو فُلَانٍ فُلَانًا۔ یعنی بنو فلاں نے فلاں کے پاس بہت آمدورفت رکھی۔ وَحَجَّجْتُ فُلَانًا - میں فلاں کے پاس بار بار آیا گیا۔ حَجَّاء الْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا۔ صفت (حَاجَّاء) ج حُجَّاج و حِجِيج وَحَجَّاء - مونث حَاجَّة۔ ج - حَاجَّاء۔ حَجَّاء - علیہ - آنا۔ عن الامر۔ باز رہنا۔ رکتا۔ حَاجَّاهُ - حَاجَّاء وَحَاجَّة۔ جھگڑا کرنا۔ حَجَّاهُ تَحِيجًا وَاحَجَّاهُ اُحْجَا جًا۔ ادائیگی حج کے لیے بھیجنا۔ تَحَاجَّاء تَحَاجَّاء - آپس میں جھگڑا کرنا باسم جھگڑنا۔ اِحْتَجَّاء - اپنے دعوے پر دلیل لانا۔ بالشئ - کسی چیز کو دلیل یا عذر بنانا۔ البیت - زیارت کرنا۔ اِسْتَحْجَّاء - دلیل و حجت طلب کرنا۔ الحَاجَّاء - فاعل۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے والا۔ اسم جمع یعنی حُجَّاج۔ کتے ہیں قدم الحَاجَّاء حِثِّي الْمَشَاة۔ حاجی لوگ آپہنچے یہاں تک کہ پیدل چلنے والے بھی۔</p>	<p>پانی والا ہونا۔ الحُثْرَب - گدلا پانی۔ میدان سبزی۔ حِثْل (س) حِثْلًا - موٹے پیٹ والا ہونا۔ اِحْثَلْتُ - اَلْقَدْرُ وَلَدَهَا - مال کا بچہ کو خراب غذا دینا۔ صفت مفعولی۔ (حِثْل) - اَلدَّهْرُ فُلَانًا۔ زمانہ کا کسی کو بد حال کر دینا۔ تباہ حال بنا دینا۔ الحِثْل - دودھ پلانے کی خرابی۔ تباہ حالی۔ الحِثْل - لاغر۔ کمزور۔ الحِثْلَةُ - حوض میں تھوڑا بچا ہوا پانی۔ الحِثَالُ وَالْحِثَالَةُ - چاول یا جو وغیرہ کا چھلکا۔ حِثَالَةُ الدُّهْن - تیل کا تلمیٹ۔ النَّاس - گھٹیا رفیل لوگ۔ حِثْم (ن) حِثْمًا - لہ۔ دینا۔ الشئ۔ مٹا۔ رگڑنا۔ العِثْمَةُ وَالْحِثْمَةُ - چھوٹا ٹیلہ الحِثْمَةُ ناک کی ٹنڈی۔ ناک کا بانسہ۔ ج۔ حِثَام۔ الحِثْمَةُ - بند کے نزدیک پانی کے گرنے کی جگہ۔ حِثَان، حِثْوًا وَحِثِي (ن) حِثِيًا وَ تَحِثَّاء - التُّرَاب - مٹی ڈالنا۔ التُّرَاب - مٹی کا گڑا۔ تھوڑا سا دینا۔ کما جاتا ہے۔ حِثَانِي وَجْهَهُ - مادہ۔ یعنی اس نے اس کو شرمندہ و نادم کر دیا۔ وَحِثَانِي وَجْهَهُ التُّرَاب - یعنی وہ اس سے سبقت لے گیا۔ اِسْتَحْثَوَا - ایک دوسرے کے چہرے پر مٹی پھینکنا۔ الْحِثَا وَالْحِثِي - بھوسہ کے رینے</p>
---	---	---



دربان ہے۔ تَحَجَّبَ وَاحْتَجَبَ۔
چھپنا۔
اسْتَحَجَبَ۔ کسی کو دربان بنانا، حاجب مقرر کرنا۔
الْحِجَابُ۔ مص۔ ج۔ حُجُب۔ پردہ دو چیزوں میں عائل ہونے والی چیز۔ تعویذ۔
حِجَابُ الشَّمْسِ۔ سورج کی رشتی۔
حِجَابُ الْقَلْبِ۔ دل اور پیٹ کے درمیان مائل ہونے والا پردہ۔
الْحَاجِبُ۔ ج۔ حَوَاجِبُ وَحَوَاجِبُ اَبْرُو۔ حَوَاجِبُ الشَّمْسِ۔ سورج کی شعائیں، الشَّيْءُ۔ چیز کا کنارہ حَاجِبُ الشَّمْسِ۔ طلوع کے وقت سورج کا نظر آنے والا کنارہ۔
الحَاجِبُ۔ ج۔ مُحْجَبٌ وَحَجَبَةٌ۔ دربان الْحَاجِبَةُ۔ دربانی کا پیشہ۔ دربان کی آسامی۔
حَجَبَجَ۔ بولنے سے رکنا۔
بالمكان۔ اقامت اختیار کرنا۔
الرجلُ۔ پچھلے پاؤں لوٹنا۔
حَجَرَةٌ (ن) حَجَرًا وَحَجَرَانًا۔ بتثلیث الحاء فی المصدرین۔ منع کرنا حجر علیہ القاضی۔ قاضی کا کسی کو مالی تصرفات سے روک دینا۔
(ر حَجَرًا وَحَجَرًا) علیہ الامر۔ محروم کرنا، ناجائز ٹھہرانا۔
حَجَرُ الْقَمَرِ۔ چاند کا بالہ والا پھنا۔
الطینُ۔ مٹی کا سخت اور پتھر کے مانند ہونا۔
أَحْجَرَةٌ۔ ڈھانپنا، چھپانا۔
تَحَجَّرَ وَاسْتَحَجَرَ۔ پتھر کی طرح ہونا الرجلُ۔ مجھو بنانا۔ تَحَجَّرَ علی فلان۔ کسی کو تنگ کرنا۔
کہتے ہیں "تَحَجَّرَ مَا وَسَّعَهُ اللَّهُ"

یعنی جس چیز میں اللہ نے اس کو فراخی دی تھی اس کو اس نے اپنی جان کے لیے تنگ کر لیا۔ محروم کرنا۔
اسْتَحَجَرَ۔ علیہ۔ جرات کرنا، دلیر ہونا احتجر۔ حجرہ بنانا۔ احتجر الشیء۔ کسی چیز کو اپنی گود میں لینا۔
— بہ۔ پناہ لینا۔
الحَجَرُ۔ مص۔ ممانعت۔ رکاوٹ۔
من العین۔ آنکھ کا خانہ۔
(ر) والحُجْرُ والحِجْرُ (گود)۔
کہتے ہیں "نشأ فلان فی حجر فلان" فلاں فلاں کی گود یا حفاظت میں پلا بڑھا۔ حرام۔ کہا جاتا ہے۔
"هَذَا حَجَرٌ عَلَیْكَ" یہ تم پر حرام ہے۔ "وَحَجَرًا لَهُ" یعنی دفع ہو۔ عرب یہ جب بولتے ہیں کہ کوئی چیز ان کو سخت ناپسند و مکروہ ہو۔
الحِجْرُ۔ عقل۔ گھوڑی۔ ج۔ حُجُوسٌ وَحُجُوسَةٌ وَأَحْجَاسٌ۔
الحَجَرُ۔ پتھر۔ ج۔ أَحْجَاسٌ وَحِجَاسٌ وَحِجَارَةٌ وَأَحْجُجٌ۔ کہا جاتا ہے۔
"القمہ الحجر" کسی کو مشک و دندان شکن جواب سے خاموش کر دینا کہتے ہیں "أهل الحجر والمدس" یعنی دیہاتی لوگ۔
الحِجْرَانُ۔ سونا چاندی۔ أَحْجَاسُ الْخِیْلِ۔ وہ عمدہ گھوڑے جو نسل بڑھانے کے لیے رکھے جائیں (مفرد مستعمل نہیں)۔
الحُجْرُ۔ ناخن کے گرد کا گوشت۔
الْحَجَرَةُ۔ کنارہ۔ ج۔ حُجْرٌ وَحُجْرَاتٌ وَحَوَاجِرٌ۔ کہا جاتا ہے "انْشَرَّتْ حُجْرَتُهُ" اس کا مال بہت ہو گیا۔
الْحُجْرَةُ۔ مکہ۔ قبر، احاطہ مویشی، کنارہ

ج۔ حُجْرٌ وَحُجْرَاتٌ وَحُجْرَاتٌ وَحُجْرَاتٌ۔ حُجْرَاتٌ۔ حُجْرَاتٌ الْعَسْكَرِ۔ لشکر کا سیدھا اور اٹا بازو۔
الحَجَرُ وَالْحَجِيرَةُ۔ بہت پتھروں والی زمین۔
الحَاجِرُ۔ فَا۔ ج۔ حُجْرَانُ۔ وہ بلند زمین جس کے بیچ میں پستی ہو، صحرا میں حاجیوں کے اترنے کی جگہ۔ د۔
وَالْحَاجُودُ۔ پانی کو روکنے والا نہر کا پشتہ۔
الْمَحْجَرُ وَالْمَحْجَرُ۔ مِنَ الْعَيْنِ۔ آنکھ کا خانہ۔ باغیچہ۔ ج۔ مَحَاجِرُ۔
الْمَحْجَرُ۔ گاؤں کا گردا گرد۔ حفاظت کی جگہ اور اسی سے ہے المَحْجَرُ الصَّحِيحُ۔ وہ جگہ جہاں وہاں مبتلا شدہ لوگ حفاظت و نگرانی میں رکھے جائیں تاکہ دوسرے تندرست و باکے شکار نہ ہوں۔
الْحَنْجَرَةُ۔ حلق کی نالی۔ حلقوم۔
ج۔ حَنَا جِیر۔
الْحَنْجُوسُ۔ حلقوم۔ حلق۔ گلا۔ چھوٹی ٹوکی۔ شیشی۔
حَنْجَرَةٌ (ن من) حَنْجَرًا وَحَنْجَرَةً۔ منع کرنا۔ روکنا۔ ج۔ حَنَا جِیر۔ دفع کرنا۔ بیٹھنا۔ درمیان میں آنا فاصلہ کرنا۔ علیہ المال او العقار۔ مال یا جائیداد کو دعوے کی بنا پر روک لینا۔
أَحْجَزُ وَالْحَجَزُ۔ ملک حجاز میں آنا۔ الْحِجْرُ۔ رکنا۔
حَاجَزَةٌ۔ ایک دوسرے کو منع کرنا۔
تَحَاجَزُوا۔ ایک دوسرے کو منع کرنا۔
روکنا۔ دفع کرنا۔
أَحْتَجَزَ۔ الشَّيْءُ۔ جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا۔
بہ۔ محفوظ ہونا۔ باز رہنا۔ بالاناس

ازار کمر پر باندھنا۔ کمر بند سے کمر سنا۔
 الشیءُ۔ کوئی چیز گود میں اٹھانا۔
 الرجل۔ کسی کا حجاز میں آنا۔
 الحِجْرُ والحُجْرُ۔ بڑ۔ قبیلہ۔ کنارہ۔
 الحِجْرُ۔ پاک دامن۔ پاک۔
 الحجاز۔ عربستان کا ایک صوبہ جس
 میں مکہ معظمہ و مدینہ منورہ واقع ہے
 کمر بند۔ اونٹ کے پاؤں باندھنے کی
 رسی۔ گانے کی ایک سُر۔
 الحُجْرَةُ۔ ج۔ حُجْرٌ وَحُجْرَاتٌ وَ
 حُجْرَاتٌ وَحُجْرَاتٌ۔ ازار
 باندھنے کی جگہ۔ نیفہ۔ کہتے ہیں۔
 فلان طیب الحُجْرَةِ۔ فلاں
 پاک دامن و عقیف ہے۔ و شدید
 الحُجْرَةِ۔ بڑا صابر۔ ”و هذا
 کلامٌ اخذنا بعضہ بحُجْرَةٍ
 بعضی“۔ یعنی اس کلام کا ایک حصہ
 دوسرے حصہ سے مربوط و منسلک
 ہے۔
 الحَاجِز۔ ج۔ حَوَاجِز۔ تلوار کی دھار
 برزخ۔ روک۔
 الْمُتَحَجِّز۔ ازار باندھنے کی جگہ۔
 حَاجِفُهُ مُحَاجِفَةٌ۔ مقابلہ کرنا۔ ہٹانا۔
 اِنْحَجَفَ۔ التجا کرنا۔ زاری کرنا۔
 اَحْتَجَفَ۔ الشیءُ۔ قبضہ میں لانا۔
 مائل کرنا۔ نفسہ عن کذا۔
 ہٹانا۔ باز رکھنا۔ اَلْحَجْفَةُ۔ بغیر
 لکڑی کے چڑے کی بنی ہوئی ڈھال۔
 سینہ۔ الجیف۔ پیٹ کی
 گڑ گڑاہٹ۔ ج۔ حَجَفَ۔
 حَجَلٌ (نض) حَجَلًا وَحَجَلًا ثًا۔
 ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پر چلنا۔
 الْمُقْتَبِدُ۔ دونوں پاؤں سے کودنا۔
 البعیر۔ اونٹ کو باندھنا۔
 حُجِّلَ حَجَلًا۔ بینہما۔ مائل ہونا۔

حَجَلَت (ن) حُجُولًا وَ حَوَجَلَت۔
 العین۔ آنکھ کا اندر کودھنس جانا۔
 حَجَل۔ العروس۔ دلہن کے لیے کمرہ
 آراستہ کرنا۔ دلہن کو آراستہ کمرے
 میں داخل کرنا۔ حَجَلَتِ الْمَرْأَةُ
 بنا سنہا۔ عورت کا مندی لگانا۔
 العین۔ آنکھ کا اندر کودھنسنا۔
 الرجل امرأ۔ کسی کا اپنے کام
 کو مشہور کرنا۔ الْمُقْتَبِدُ۔ دونوں
 پاؤں سے کودنا۔
 حُجِّلَ وَتَحَجَّلَ۔ گھوڑے کا ٹانگوں سے
 سفید ہونا۔ صفت (مُحَجَّلٌ وَ
 مُحَجَّلٌ) اترتین ٹانگوں میں سفیدی
 ہو تو اس کو جمیل کہتے ہیں۔
 حَجَلَتِ الْمَرْأَةُ۔ عورت کو پازیب
 پہنایا جانا۔
 الحَجَل۔ واحد۔ حَجَلَةٌ۔ ج۔ حَجَلَان۔
 و حَجَلِی۔ چکر۔
 الحَجَلُ وَالْحَجَلُ وَالْحَجَلُ۔
 پازیب۔ بیڑی۔ گھوڑے کی ٹانگ میں
 سفیدی۔ ج۔ اِحْجَالٌ وَحُجُولُ۔
 الْحَجَلَةُ۔ مکان کے اندر دلہن کے لیے
 ڈالا ہوا پردہ۔ دلہن کے لیے آراستہ
 کیا ہوا کمرہ۔ ج۔ حِجَالٌ وَحَجَلُ۔
 عرب کہتے ہیں الْحُجُولُ لِبُحْبَاتِ
 الْحِجَالِ۔ یعنی پازیب عورتوں
 کے لیے ہے۔
 الْجِيلَاءُ۔
 الْحَوَجَلَةُ وَالْحَوَجَلَةُ۔ شیشی۔
 جہر حَوَاجِلٌ وَحَوَاجِلُ۔
 الْمُحَجَّلُ۔ من الخیل۔ وہ گھوڑا جس
 کی ٹانگوں میں سفیدی ہو۔
 یوم مُحَجَّلٍ۔ مسرت و خوشی کا دن۔ کہتے
 ہیں ”امْرَأَتُ مُحَجَّلٍ“ بہت
 مشہور بات۔ البعیر۔ اونٹ کے

منہ پر جالی باندھنا۔
 حَجَمَ (نض) حَجَمًا الْحَجَامُ
 السویشن۔ حجام کا بیمار کے پچھنے لگانا۔
 الْحَيَّةُ۔ سانپ کا ڈس لینا۔
 الصبی ثری امہ۔ بچہ کا اپنی
 ماں کی چھاتی کو چوسنا۔
 حَجَمَهُ۔ عن الشیء۔ منع کرنا۔
 حَجَمَ طَوْفَهُ عَنْهُ۔ کسی کی طرف سے
 نگاہ پھیر لینا۔
 حَجَمَ (نض) حَجَمًا وَآحَجَمَ۔ الشدی۔
 پستان کا ابھرنا۔ بلند ہونا۔
 اجتمعت المرأة للمولود۔ ماں کا بچہ
 کو پہلی دفعہ دودھ پلانا۔ اجتمع عن
 الشیء۔ ڈر کر پیچھے ہٹنا۔ رکنا۔
 اجتمع۔ پچھنے لگانا۔ الحجامۃ۔
 پچھنے لگانے کا پیشہ۔
 الحجم۔ جسم کی مقدار۔ وہ ابھار جو ہاتھ
 کے پھیرنے سے محسوس ہو۔ ج۔ حَجُوم۔
 الْحِجَامُ۔ اونٹ کے منہ پر لگانے کی جالی
 جس کی وجہ سے وہ کانٹے سے باز رہے۔
 الحاجم۔ ج۔ حُجَامٌ۔ وَحِجْمَةٌ (والحجام)
 پچھنے لگانے والا۔
 المحجم۔ پچھنے لگانے کی جگہ۔ ج۔ محاجم۔
 المحجم والمجمعة۔ پچھنے لگانے کا
 اوزار سینگلی۔ ج۔ تحجام۔
 المحجام۔ ڈرنے کا نوگر۔ خوف کی وجہ سے
 پیچھے ہٹنے والا۔
 حَجَنَ (نض) حَجْنًا وَحَجَنَ۔ العود۔ لکڑی کو
 موڑنا۔ بیڑھا کرنا۔ (واحتجن)
 الشیء۔ چیز کو کانٹے سے کھینچنا۔ کہتے
 ہیں ”احتجن المال“۔ اس نے مال
 کو اکٹھا کیا اور اس نے پرگندہ مال کو جمع
 کر کے اس کی اصلاح کی۔ احتجن
 علیہ۔ روکنا۔
 حَجَنَ حَجْنًا (س) بالذات۔ گھر میں اقامت

کرنا۔ علیہ وہ۔ بخل و کجوسی کرنا۔
 تَحَجُّنٌ۔ مڑنا۔ ٹیڑھا ہونا۔
 الْحَجْنُ وَالْحَجْنَةُ۔ ٹیڑھا پن۔ کجی۔
 الْحُجْنَةُ۔ خود اپنے لیے پسند کی ہوئی اور
 مخصوص کی ہوئی چیز۔
 الْأَحْجَنُ۔ ٹیڑھا۔ کہتے ہیں "مقروا حَجْنُ
 الْمَخَالِبِ"۔ ٹیڑھے جنگل والا شکار۔
 مُنْثٌ۔ تَجْنَاءُ۔ ج۔ حَجْنٌ۔
 الْحَجُونُ۔ سست۔ کہتے ہیں۔ سونا
 عَقَبَةُ حَجُونًا۔ ہم بھی مسافت والی
 گھٹی پر چلے۔
 الْحَجْنُ وَالْحَجْنَةُ۔ ٹیڑھے سر کا ڈنڈا۔ یا
 ہر مڑے ہوئے سروالی چیز۔ کہا جاتا
 ہے "هُوَ حَجْنٌ مَالٍ"۔ وہ اونٹوں
 کا اچھا منتظم ہے۔
 حَجْنُ الطَّيْرِ۔ پرندہ کی چونچ۔
 حَجَانٌ، حَجْوًا۔ ٹھہرنا۔ بالمكان۔ اقامت
 کرنا۔ بالشیء۔ بخیل کرنا۔
 به حَيْدًا۔ اچھا خیال کرنا۔ السَّوْرُ
 بهیدر کھنا۔ حَجَاةٌ۔ قصد کرنا۔ اعتماد
 کرنا۔ منع کرنا۔ القوم۔ بدلہ دینا۔
 الْأَمْرُ۔ محض گمان پر دعوئے کرنا
 اور یقین نہ رکھنا۔
 حَجِي (س، حَجّی)۔ بدلہ۔ فریفتہ ہو کر لازم ہونا۔
 آجَاهُ۔ ۱۔ حَجَاءُ۔ بکذا۔ کسی کو لائق بنانا
 کہتے ہیں "مَا آجَاهُ بَكْذَا"۔ وہ اس
 کا کس قدر لائق و سزاوار ہے۔
 حَاجَاةٌ۔ حَاجَاةٌ۔ چستان و پہلی پیش
 کرنا۔ سمجھ یا عقل میں کسی پر غالب آنا
 کہتے ہیں "حَاجِبِيَّتُهُ فَجَوْتُهُ" میں نے
 زیر کی میں مقابلہ کر کے اس پر غلبہ حاصل
 کیا۔
 تَحَجّی۔ بالشیء۔ فریفتہ ہونا اور لازم ہونا۔
 بالمكان۔ اقامت کرنا۔ کہتے ہیں۔
 "تَحْجِيَتُكُمْ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ" میں

اس جگہ تک پہنچنے میں تم سے آگے رہا۔
 اور تم سے پہلے وہاں جم گیا۔
 الشَّيْءُ۔ قصد کرنا۔
 احْتَجّی۔ الشَّيْءُ۔ چھپانا۔ تَحَاجَّوْا۔
 آپس میں ایک دوسرے پر پہلی پیش
 کرنا۔
 الْحَجْجِ۔ عقل و سمجھ۔ ج۔ أَحْجَاءُ۔
 الْحَجَا۔ کنارہ۔ گوشہ۔ ج۔ أَحْجَاءُ۔
 الْحَجَا۔ وادی کا موڑ۔ زمین کا ابھرا ہوا اور
 اٹھا ہوا حصہ۔ پناہ کی جگہ۔ ج۔ آجَّاءُ۔
 وَتَجَا۔ الشَّيْءُ۔ چیز کا کنارہ۔
 الْحَجَاةُ۔ ج۔ تَجَا۔ بارش کے قطرات
 سے پیدا ہونے والا ببلہ۔
 الْحَجّی وَالْحَجّی۔ لائق۔ الاحْجِيَّةُ۔
 پہلی۔ چستان۔ ج۔ أَحَاجِی و
 أَحَاجُ۔ کلمہ (مَحْجِيَّةٌ) و
 مَحْجِيَّةٌ (مَحْجِيَّةٌ) رمز آمیز کلمہ۔ وہ کلمہ جس
 کے الفاظ ظاہری معنی کے مخالف ہوں
 کہتے ہیں "إِنَّهُ (لِلْحَجَاةِ) أَنْ يَفْعَلَ
 كَذَا" یعنی اس کے لیے لائق و سزاوار
 ہے کہ وہ ایسا کرے۔
 حَدَّ (ن، حَدَّ) وَحَدَّ (د، الدار)۔
 گھر کے لیے حد مقرر کرنا۔ الْمَذْنِبُ۔
 گناہگار پر حد لگانا۔ اور اس کو عبرت ناک
 سزا دینا۔ الشَّيْءُ عَنِ الشَّيْءِ۔ ایک
 شے کو ایک شے سے جدا کرنا۔ تمیز کرنا۔
 اللَّهُ عَنِ الشَّرِّ۔ اللہ نے برائی کو
 روک کر اس کو ہم پر نئے مثال دیا۔
 حَدَّتْ (ن، حَدَّ) حَدَّ (د، حَدَّ) وَحَدَّ (د، حَدَّ)۔
 الْمَرْأَةُ۔ عورت کا سوگ منانا۔
 صفت (حَدَّ) ج۔ حَوَادٍ۔
 حَدَّ، حَدَّ (د، حَدَّ) وَحَدَّ (د، حَدَّ)۔
 السَّكِينُ۔ چھری کو تیز کرنا۔
 حَدَّتْ (ن، حَدَّ) حَدَّ (د، حَدَّ) وَحَدَّ (د، حَدَّ)۔
 السَّكِينُ۔ چھری کا تیز ہونا۔

حَدَّ (ن، حَدَّ) وَحَدَّ (د، حَدَّ) وَحَدَّ (د، حَدَّ)۔
 علیہ۔ غضب ناک ہونا۔
 حَدَّ (د، حَدَّ)۔ الارض۔ زمین کے حدود قائم کرنا۔
 — الیہ ولہ۔ قصد کرنا۔ —
 الْأَمْرُ۔ معلوم کرنا — علیہ۔
 غضب ناک و غصہ ہونا — الزَّيْعُ۔
 بارش کی تاثیر سے کھیتی کا دیر سے اٹنا۔
 حَدَّ (د، حَدَّ)۔ دشمنی کھنا۔ غضب ناک ہونا۔
 حَدَّتْ أَرْضُهُ اس رضی۔ میری زمین
 اس کی زمین کے متصل ہے۔ یعنی میں
 اس کا پڑوسی ہوں۔
 أَحَدَّ۔ الیہ النظر۔ تیز نظر سے دیکھنا
 گھورنا۔ احَدَّتِ الْمَرْأَةُ۔ عورت کا
 خاوند کے غم میں سوگ منانا۔
 صفت (حَدَّ) وَحَدَّ (د، حَدَّ)۔
 تَحَدَّدَ۔ بسمہ۔ اکسانا۔ دھمکانا۔
 تَحَادَّ۔ ایک دوسرے سے ناراض ہونا۔
 بام غضب ناک ہونا۔
 أَحْتَدَّ۔ قوی ہونا — علیہ۔ کسی پر
 غضب ناک ہونا۔
 اسْتَحَدَّ۔ دھارتیز کرنا۔
 الْحَدَّ۔ مص۔ دو چیزوں کے درمیان کی
 روک۔ کہتے ہیں "دَارُهُ حَدَّ دَارِي"
 اس کا گھر میرے گھر کے پڑوس میں ہے
 وَالْحَدَّ۔ چیز کی انتہا۔ الْحَدَّ
 مِنَ السَّيْفِ۔ تلوار کی دھار۔
 مِنَ الشَّرَابِ۔ شراب کا جوش۔
 مِنَ الْإِنْسَانِ۔ انسان پر طاری
 ہونے والی غضبی کیفیت۔ من
 كُلِّ شَيْءٍ۔ تیزی۔ حَدَّ الشَّيْءِ۔
 جامع و مانع تعریف۔ پوری تعریف
 سزا۔ ج۔ حُدُودٌ۔ وحدود اللہ
 خدا تعالیٰ کی اطاعت اور شرعی احکام
 الْحَدَّ۔ مص۔ ممنوع چیز۔ کہتے ہیں۔
 "هَذَا مَرَحَدٌ" یعنی یہ ممنوع





امر ہے اس کا فعل روا نہیں۔ ” و
 هذا خبر حداد۔ ” یہ خبر جھوٹی اور
 بے بنیاد ہے۔ ” و دون هذا
 حداد۔ ” اس کے ورے ممانعت
 ہے۔ ” و حداداً ان يكون هذا
 خدا کرے کہ ایسا نہ ہو۔
 الحداد۔ حدت المرأة۔ کا مصدر ہے
 سیاہ مانتی لباس۔
 الحداد۔ تیزی والا۔ کہتے ہیں ”رجل
 حداد۔“ تیزی والا آدمی۔ ” اصلہ
 سکین حداد۔“ تیز کاٹنے والی
 چھری۔ ج۔ احدث۔ کہتے ہیں۔
 ”حدادك ان تفعل كذا“
 تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم
 ایسا کرو۔
 الحدادة۔ بیوی۔ الحدادة
 لوبار کا پیشہ۔
 الحدید۔ لوبار۔ سخت لوہے کو ذکر اور
 نرم کو اُنٹھی اور آئینہ سے تعبیر
 کرتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ ”هو
 حدیدی“ وہ میرا پڑوسی ہے۔
 ”وداری حدیدة داسہ“ میرا
 گھراس کے پڑوس میں ہے۔
 الحدید۔ ج۔ احدث۔ و حداد کاٹنے
 والا۔ کہتے ہیں۔ ”سيف حدید“
 شمشیر برائے ”رجل حدید“
 تیز فہم یا تیز مزاج آدمی۔
 الحدیدة۔ لوہے کا ٹکڑا۔ ج۔ حدائد
 و حدیدات وجہ۔ حدائدات
 ۔ حدیدة الحرث۔ ہل کی بھار۔
 الحداد۔ لوبار۔ لوبار بیچنے والا۔ دربان
 داروغہ جیل۔
 المحدود۔ حدود میں گھرا ہوا۔ محروم۔
 غیر یا نثر سے روکا ہوا۔
 حدائف، حداء۔ الشئ عنہ۔

پھیر دینا۔ بٹا دینا۔
 حدی دس، حداء۔ بالمكان۔
 کسی جگہ جم جانا۔ الیہ۔ کسی
 سے پناہ لینا۔ الیہ و علیہ۔
 کسی پر مہربانی کرنا۔ اور اس کی
 یاری کر کے اس کو ظلم سے بچانا۔
 ۔ علیہ۔ غضب ناک ہونا۔
 الحدافة۔ دوسروں کی کدال۔ ج۔
 حداء۔ و حداء۔
 الحدافة۔ چیل عوام اس کو حدائیۃ
 کہتے ہیں۔ ج۔ حداء و حداء
 و حدان۔
 حدب دس، حدباء و احدثب۔
 الرجل۔ آدمی کا بڑا ہونا۔
 صفت (حدب و احدثب)
 مؤنث۔ حدبیتہ۔
 حدباء۔ ج۔ حدب و احدثاب و
 حدبات۔ حدب علیہ کسی پر
 مہربان ہونا۔
 حدبہ و احدثبہ۔ بڑا بنانا۔ خمیدہ
 کرنا۔ حدب الشئ۔ کسی شے
 کو اونچا کرنا۔ ابھارنا۔
 تحدثب۔ بڑا ہونا۔ علیہ
 مہربان ہونا۔ بہ۔ تعلق رکھنا
 ۔ المرأة۔ خاوند کے مرنے
 کے بعد عورت کا بچوں کے لیے بیٹھا
 رہنا اور دوسرا شوہر نہ کرنا۔
 احد و د و تحادب۔ بڑا ہونا۔
 احد و د ب الرجل۔ لبا، اور
 ٹیڑھا ہونا۔
 الحدب۔ مع بڑاپن۔ موج۔ قبر۔
 کھال کا نشان۔ زمین کی اونچی جگہ۔
 ایک قسم کی گھاس۔
 الحدباء۔ قحط کا سال مشکل کام۔
 لاش

الحدبہ۔ بڑاپن۔ پیٹھ میں کبڑی جگہ۔
 کہتے ہیں۔ ”فی ظہور حدبہ“
 اس کی پیٹھ میں خمیدگی ہے۔
 ۔ من الارض۔ بلند و سخت زمین۔
 الاحدب۔ تلوار۔ بازو میں ایک رگ
 کا نام ہے۔
 امر احدثب۔ مشکل کام۔
 المحدثب۔ ابھرا ہوا۔ بڑا۔
 من الخطلوط۔ ابھری ہوئی لکیریں۔
 حدث دن، حد وثاء۔ الامر۔
 کسی امر کا واقع ہونا۔ (حد اثنہ)
 و حد وثاء۔ نیا ہونا۔ نوپید ہونا۔
 جب قدم کے ساتھ اس کا استعمال
 ہوتا ہے تو عین کلمہ پر منہ آتا ہے۔
 جیسے۔ ”اخذ فی ما قدم و ما
 حدث“ یعنی مجھ کو نئے اور پرانے
 غموں نے آن لیا۔
 حدث۔ عن فلان۔ کسی سے کچھ
 بیان کرنا۔ روایت کرنا۔
 ۵۔ کذا و بکذا۔ خبر دینا۔ بیان کرنا
 حادثہ۔ گفتگو کرنا۔ حادث السیف
 تلوار کو جلادینا۔ صیقل کرنا۔ اور اسی
 سے ہے۔ کمنصل السیف خود
 بالضمقال۔ مانند تلوار کے پھل کے
 جس کو صیقل سے جلادی گئی ہو۔
 احدثہ۔ ایجاد کرنا۔ پیدا کرنا۔
 احدث الرجل۔ پاخانہ کرنا۔
 السیف۔ تلوار کو جلادینا۔
 تحدث۔ بالشئ۔ وعن الشئ۔ کلام
 کرنا۔ خبر دینا۔
 تحدثوا۔ آپس میں ایک دوسرے سے
 بات چیت کرنا۔
 استحدثہ۔ پیدا کرنا۔ الخیر۔ نیا
 پانا۔ رجل (حدث، ملوک)
 بادشاہوں کا قصہ گو۔

الْحَدِيثُ وَالْحَدَّثُ - اچھا کلام کرنے والا۔

الْحَدَّثُ - نئی چیز نیا کام۔ خلاف سُنْتُ نئی بات۔ دین میں بدعت۔ یا سُخَّانَ ج۔ اَحَدَاثُ۔

وَ اَحَدَاثُ الدَّهْرِ - زمانہ کی مصیبتیں۔

الْحَدَّثُ - جوان۔ ج۔ اَحَدَاثُ وَ حَدَّثَانُ وَالْحَدَّثُ اثْنَةُ - مص۔ حدِ اثْنَةُ الْاُمَمِ - کسی امر کا اول اور اس کی ابتداء۔

الْحَدَّثُ - حادثہ۔ الحَدُّ وَثْنَةُ - آغاز و ابتداء۔

الْحَدَّثَانُ - ابتداء۔ آغاز۔ وَ حَدَّثَانُ الدَّهْرِ وَ حَدَّثَاتُهُ - زمانہ کی سختیاں۔

الْاَحْدُوثَةُ - بات۔ خبر۔ کہانی۔ افسانہ۔ الْحَادِثُ - نئی چیز نوپید۔ قدیم کا مخالف۔ مُؤْنَثٌ - حادثہ۔ ج۔ حَوَادِثُ

وَ حَادِثَاتٌ - حوادث الدَّهْرِ - زمانہ کے مصائب۔

الْحَدِيثُ - ج۔ حَدَاثٌ وَ حَدَثَاءٌ - جدید۔ نیا۔ الحديث - ج۔ احادیث۔ وَ حَدَّثَانُ - خبر۔ کہا

جاتا ہے۔ "مَا رَوَا احَادِیْثُ" یعنی وہ ختم ہو گئے اور اب صرف ان کا ذکر ہی زبانوں پر باقی ہے۔

عِلْمُ الْحَدِيثِ - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور حالات بتانے والا علم۔

الْحَدِيثُ - بہت کلام کرنے والا۔ الْحَدَاثُ - گفتگو کرنے والی جماعت۔

الْحَدِيثُ - حدیث۔ خبر۔ الْحَدَّثُ - وہ نئی شے جس کا ثبوت نہ

کتاب اللہ نہ سنت رسول اور نہ

اجماع امت سے مل سکے۔ ج۔ مُحَدَّثَاتٌ - نیا۔

مُتَحَدَّثُ - القوم۔ حَدَّ ج۔ (مِنْ) حَدَّجًا - البَعِيْرُ - اونٹ پر بوجھ لادنا۔

الْاِجْمَالُ - بوجھ باندھنا۔ کسنا۔ الْاِبْلُ - اونٹ کے داغ لگانا۔

۵ - مَارْنَا - حَدَّجْهُ بِالسَّهْمِ - تیر مارنا - ۵ بِالذَّنْبِ -

گناہ کا الزام لگانا۔ کہا جاتا ہے۔ "حَدَّجْهُ بِبَيْعِ سَوْءٍ" - اس نے

ایسی بیع اس پر لازم کر دی۔ جس میں سراسر خسارہ ہے۔

حَدَّجْهُ وَ حَدَّ ج۔ بِبَصْرَةٍ - گھورتا تیر نظر سے دیکھنا۔

أَحَدَّ ج۔ البَعِيْرُ - اونٹ پر بوجھ لادنا الْحَدَّ ج۔ بوجھ۔ ج۔ حُدَّجْ وَ حُدَّوْجْ

وَ أَحَدَّ ج۔ (د) - وَالْحَدَّاجَةُ - عورتوں کی سواری کی بودرج عتاری

الْحَدَّ ج۔ کچا اور سخت اندر آئیں۔ أَبُو حُدَّيْمٍ - لَقَلْتُ - پرندہ کی

کنیت۔ الْحَدَّ ج۔ اونٹوں کو داغ لگانے کا اوزار۔

حَدَّ سَمًا وَ حَدَّ سَمًا (ك) - حَدَّ سَمًا وَ حَدَّوْرًا وَ حَدَّاسَةً -

الْوَجْلُ - آدمی کا موٹا اور مضبوط ہونا۔ الْجِلْدُ - جلد کا سوجنا۔

"حَدَّرَ وَ اَحْوَلَهُ وَ بَلَّغَ كَيْفَ لِينَا" حَدَّ سَمًا (مِنْ) حَدَّوْرًا وَ حَدَّوْرًا

نِجْجًا اَتَرْنَا - الشَّيْءُ - نِجْجًا اَتَرْنَا الْاَثَامُ عَنْ حَنْكَةٍ - جھکا نا۔

الْعَيْنُ الدَّمْعُ - آنکھ کا آنسو بہانا۔ - الْقِرَاءَةُ وَ فِي الْقِرَاءَةِ - تیزی سے پڑھنا۔ الدَّوَاءُ بَطْنُهُ -

دوا کا اسہال لانا۔ حَدَّ سَمًا (مِنْ) حَدَّوْرًا - الْجِلْدُ -

کھال کو متورم کرنا۔ أَحَدَّرَ - الثَّوْبُ - کپڑے کا دامن چننا۔

الْجِلْدُ - متورم کرنا۔ الْجِلْدُ - متورم ہونا۔ الْقِرَاءَةُ - ادا المثنیٰ

پڑھائی یا چال میں جلدی کرنا۔ تیزی کرنا۔

تَحَدَّسَ وَ تَحَدَّاسٌ - اترنا۔ کہتے ہیں۔ "رَأَيْتُ الدَّمْعَ يَتَحَدَّاسٌ عَلَى

لَحِيَّتِهِ" - میں نے دیکھا کہ آنسو کا قطرہ اس کی داڑھی پر بہہ رہا تھا۔

الْحَدَّرَ - اترنا۔ نیچے کی طرف آنا۔ کہتے ہیں۔ "الْحَدَرْتُ مِنَ الْجَبَلِ

إِلَى الْمَدِينَةِ" - میں پہاڑ پر سے شہر کی جانب اترنا۔ الْجِلْدُ

سوجنا۔ الْحَدَّرَ - ڈھلوان جگہ۔ اتار کی جگہ۔ آنکھ کا بھیسنا۔

الْحَدُّوْسُ وَالْحَدَرَاءُ وَالْحَادُّوْسُ - ڈھلوان۔

الْحَادُّوْسُ - اسہال لانے والی۔ ج۔ حَوَادِیْرُ الْحَدَّرَةِ - پھوٹے کے اند کا زخم۔

عَيْنُ حَدَّرَةٍ - پر گوشت آنکھ۔ الْحَدَّرَةُ - فَا - اونٹوں کا ریوڑ۔

الْحَادِيسُ - فَا - موٹا۔ خوب صورت۔ جِبِلُّ حَادِيسٍ - بلند پہاڑ۔

جِبِلُّ حَادِيسٍ - مضبوط ٹی ہوئی رسی حَتَّى حَادِيسٍ - اکٹھا قبیلہ۔

الْحَادِيسُ - شیر۔ کہتے ہیں۔ "نَاقَةُ حَادِرَةِ الْعَيْنِيْنِ" - پر گوشت

حسین آنکھوں والی اونٹنی۔ الْأَحْدَرُ - پر گوشت گھوڑا۔ مِنَ الرِّجَالِ

ایک چیز کو دو دیکھنے والا۔ مُؤْنَثٌ حَدَّ سَمًا -





الْحَدُّ وَرَّةً وَالْحَدُّ وَرَّةً وَالْحَدُّ وَرَّةً
 آنکھ سے آنسوؤں کا بہاؤ۔
 الْحُدُّ وَالْحُدُّ وَرَّةً وَالْحُدُّ وَرَّةً
 والحدّارة۔ آنکھ کی سیاہی۔
 جر۔ حداس۔ کہتے ہیں: "جَعَلْتُهُ
 عَلَى حُدُورَةٍ عَيْنِي وَحُدُورَةٍ
 عَيْنِي" میں نے اس کو اپنا
 نصب العین بنایا۔
 الْحَيْدَسُ۔ شیر۔ پست قد۔
 الْحَيْدَرَةُ۔ شیر۔ ہلاکت۔ کہتے ہیں۔
 "رَمَاكَ اللَّهُ بِالْحَيْدَرَةِ"
 اللہ اس کو مصیبت و ہلاکت سے
 دوچار کرے۔
 الْمُنْحَدَرُ۔ ڈھلوان مقام۔
 حَدَسَ (ن) حَدَسًا۔ فِي الْأَمْرِ۔
 گمان کرنا۔ تخمینہ لگانا۔ دہم کرنا۔
 الشَّيْءَ بِرَجُلِهِ۔ روندنا۔
 زَيْدًا۔ پچھاڑنا۔ الشَّاةُ
 وباللشاة۔ بکری کو ذبح کرنے کے
 لیے لٹانا۔ فِي الْأَرْضِ۔ بے
 پتہ چلنا۔ فِي السَّيْرِ۔ تیز چلنا۔
 حَدَسَ بِهِ الْأَرْضِ۔ زمین پر گرا
 دینا۔ ٹپک دینا۔
 تَحَدَّسَ۔ الْإِخْبَاسُ وَعَنِ الْإِخْبَاسِ
 چھپ کر اور غفیہ طور سے خبریں دریافت
 کرنے کی کوشش کرنا۔
 الْحَدَسُ۔ مَصْ۔ دَانَاً۔ تیز فہمی۔
 زَبْرِكِي۔
 الْحَدَّيْسُ وَالْمَحْدُوسُ۔ زمین پر
 پچھڑا ہوا۔
 الْحَدَّ سَيَّاتٍ۔ فراست سے معلوم کی
 ہوئی باتیں۔
 الْحَدَّ اس۔ انتہاء۔ غایت۔ کہتے ہیں۔
 "بَلَعْتُ بِهِ الْحَدَّ اس" میں اس
 کی انتہا تک پہنچ گیا۔

الْمَحْدَسُ۔ مطلب کہتے ہیں: "فَلَانٌ
 بَعِيدُ الْمَحْدَسِ" فلان کا مطلب
 بلند و بڑا ہے۔
 حَدَقَ (ن) حَدَقًا۔ الْقَوْمُ بِهِ۔
 کسی کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔
 حَدَقَهُ بَعِينَهُ۔ کسی کی طرف دیکھنا
 — ۵ — آنکھ کی سیاہی پر مارنا۔
 الْمَرْيَعُ حُدُوقًا۔ بیمار کا
 آنکھ کھول کر دیکھنا۔
 أَحَدَقَ۔ الْقَوْمُ بِهِ۔ لوگوں کا کسی
 کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔
 أَحَدَقْتُ الرُّوضَةَ۔ باغ کا
 چار دیواری میں گھیرنا۔
 حَدَقَ۔ إِلَيْهِ۔ گھور کر دیکھنا۔ تیز
 نظر سے دیکھنا۔
 حَدَقَ۔ بِهِ۔ کسی کو چاروں طرف سے
 گھیر لینا۔
 أَحَدَوْدَقَ۔ الْقَوْمُ بِهِ۔ احاطہ کرنا۔
 گھیرنا۔
 الْحَدَقَةُ۔ آنکھ کی سیاہی ج۔ حَدَقَ
 وَحَدَقَاتٍ وَأَحَدَاتٍ وَحَدَاقٍ۔
 کہا جاتا ہے: "هُمُ فِي مِثْلِ حَدَقَةِ
 الْبَحِيرِ" یعنی ان کو خوب فراخی
 اور پانی کی فراوانی نصیب ہے۔
 "وَهُمْ رُمَاةُ الْحَدَقِ" یعنی وہ
 لوگ تیر اندازی میں خوب ماہر ہیں۔
 وَتَكَلَّمْتُ عَلَى حَدَقِ الْقَوْمِ۔
 یعنی میں نے کلام کیا اور قوم کی نظریں
 مجھ پر پھیں۔
 الْحَدَقُ۔ بِلِينٍ۔
 الْحَدِيقَةُ۔ چار دیواری والا باغ۔
 ج۔ حَدَائِقُ۔
 حَدَلْ (ن) حَدَلًا وَحَدُولًا۔
 علیہ۔ کسی پر ظلم کرنے کے لیے
 شامل ہونا۔ عوام کہتے ہیں: "حَدَلْ

الْسُّطْحَ" اس نے سطح پر رول پھیرا۔
 حَدَلْ (ن) حَدَلًا۔ ایک کندھے کا
 دوسرے سے بلند ہونا۔ صفت
 (أَحْدَلُ) مُؤَنَّثٌ۔ حَدَلًا۔
 ج۔ حَدُولٌ (رثاق) وَحَدَلٌ،
 ج۔ حَدَالِي۔ حَدَلٌ۔ علیہ۔
 ظلم کرنا۔
 تَحَادَلٌ۔ کمان پر جھکنا۔
 الْحَدَلُ۔ ازار باندھنے کی جگہ۔ گردن کا درو
 الْحَدَلُ۔ مَصْ۔ کہتے ہیں: "إِنَّهُ لَحَدَلٌ"
 یعنی وہ عادل نہیں۔
 الْحُدَالُ۔ چکنا۔ الْحُودَلَةُ۔ ٹیلہ۔
 حَدَمَهُ (ن) حَدَمًا۔ تیز گرم کرنا۔
 — الدَّمُ۔ گہرا سرخ کرنا۔
 اِحْتَدَمَ۔ النَّهَارُ۔ دن کا سخت گرم
 ہونا۔ الشَّرَابُ۔ شراب کا
 جوش تیز ہونا۔
 اِحْتَدَمَتِ الْقِدْرُ۔ ہاتھی کا سخت
 ابلنا۔
 تَحَدَّمَ وَاحْتَدَمَ۔ الرَّجُلُ۔ کسی کا
 غصہ میں بھڑک پڑنا۔
 اِحْتَدَمَ الدَّمُ۔ خون کا گہرا
 سرخ ہونا۔
 الْحَدَمُ۔ وَالْحَدَمُ۔ آگ کی تیز بھڑک
 سخت شعلہ زنی۔
 الْحَدَمَةُ۔ آگ کے بھڑکنے کی آواز۔
 الْحَدَامُ۔ غَيِظٌ وَغَضَبٌ۔ غصہ۔
 حَدَا (ن) حَدَوًا وَحَدَاءً۔ وَ
 حُدَاءً۔ بلند آوازی سے حدی گانا
 کہتے ہیں: "مَا أَمْلَحَ حُدَاءً" اس
 کا حدی گانا کس قدر پسندیدہ ہے۔
 الْأَيْلُ۔ بِالْأَيْلِ۔ اونٹ کو مانگنا۔
 صفت (حَادٍ) ج۔ حُدَاةٌ۔
 — الرَّيْحُ السَّحَابُ۔ ہوا کا بادل کو
 چلانا۔ "حَدَاهُ عَلَى كَذَا" براہِ نیغہ کرنا

دس (واحتدی، اللیل والتہار
رات کا دن کے بعد آنا۔
الحادی وحادی النجم۔ دو ستاروں
کا نام۔ "حادی عشر" میں حادی
واحد کا مقلوب ہے۔
الحذآء۔ حادی کا مبالغہ ہے۔ اور
"حادی" اونٹوں کو گاکر ہانکنے والے
کو کہتے ہیں۔
الحذآء۔ شمالی ہوا۔
الحوادی۔ ہر شے کے آخری حصے ٹانگیں۔
الأحدوة والأحدیث۔ وہ گیت جو
اونٹوں کو ہانکنے کے وقت گایا جائے۔
حیدی (دس) حذآء۔ بالمکان۔ کسی
جگہ جم کر رہنا۔
تحدی۔ الرجل۔ کسی سے مقابلہ کرنا
اور غالب آنا (— وحدی)
الشیء۔ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ
کرنا۔
الحذآء۔ جھگڑا۔ مقابلہ۔ کہتے ہیں "ہو
حذآء الناس"۔ وہ لوگوں سے مقابلہ
کرنے والا ہے۔ "وانا حذآءک
فی هذا الامر" میں اس معاملہ میں
تیرا مقابلہ کرنے والا ہوں۔
حذآء (دن) حذآء۔ جلدی کاٹ دینا۔
الحذذ۔ ہاتھ یا دم کا ہلکا پن و حذذ
القلب۔ دل کی ذکاوت یا تیز فہمی۔
الأحد۔ ہلکے ہاتھ یا دم والا۔ تیز۔ دُبلّا۔
امرٌ آحد۔ ناپسندیدہ امر سخت
امر بے مثل۔ "قلب آحد"۔ ذکی دل
مؤثر حذآء۔ کہا جاتا ہے۔
"ناقة حذآء"۔ تیز رفتار اونٹنی
وقصبة حذآء۔ مشہور و معروف قصید
وحاجة حذآء۔ جلد روانہ ہونے والی
اور نتیجہ آمد حاجت۔ "وغویمة"
حذآء۔ پختہ و مصمم ارادہ۔ ج۔

حذ۔
حذس (دس) حذساً وحذساً۔
(محذوذة) الرجل و من
الرجل۔ بچنا۔ ہوشیار رہنا۔
چوکنہ رہنا۔ صفت (حذز) و
حذز ج۔ حذسوں۔ و
حذاری۔
حذزہ۔ ڈرانا۔ بچانا متنبہ کرنا۔ چوکنہ کرنا۔
حاذزہ۔ ایک دوسرے سے محتاط رہنا۔
ڈرتے رہنا (— وتحذرنہ
واحتذرنہ)۔ بچتے رہنا۔ ہوشیار
رہنا۔
أحد اس۔ غضبناک و منقبض ہونا۔
الحاذس۔ فا۔ مستعد و تیار۔
الحاذوذة۔ بہت محتاط۔ بہت چوکنہ۔
حذآء۔ اسم فعل بمعنى ڈرو۔ خوف کرو۔
کہا جاتا ہے۔ "حذآءک زیذا"۔
زید سے بار بار بچو۔
الحذاریات۔ ڈرانے والے۔
الحذریان۔ چوکنہ۔
الحذری۔ باطل۔
المحذوڑ۔ وہ چیز جس سے بچا جائے۔
پرہیز کیا جائے۔
المحذوذة۔ ڈر۔ گھبراہٹ۔ خوف ناک
مصیبت۔ لڑائی۔
حذفہ (دس) حذفاً۔ گرانا۔ کاٹنا۔
ہا بالعصا والحجی۔ لاطھی یا پتھر
سے مارنا۔ حذف فی مشیة۔
چلنے میں قریب قریب قدم رکھنا۔
حذف۔ الشیء۔ اچھے طریقہ سے
کرنا۔ یعنی ہر غیر ضروری چیز کو ترک کر
کے تمام عیوب سے پاک صاف کرنا۔
— شعرة۔ زلف نکالنا۔
بالوں کو برابر کرنا۔
تحذف۔ بالعصا۔ لاطھی سے مارنا۔

یا پھینک کر مارنا۔
الحذف۔ چھوٹی قسم کی بیڑی۔ حذف
الزساع۔ کھیتی کے پتے۔
الحذف۔ ایک قسم کی بط۔ واحد حذفۃ۔
الحذفۃ۔ پست قد عورت۔
الحذفۃ۔ تھوڑی چیز۔ تراشہ۔
پس ماندہ خوراک۔
الحذف قاس۔ والحذف قوس۔ ج
حذف فیو۔ جانب۔ انہوہ کثیر۔
لڑائی کے لیے تیار کرنے والے۔
کہتے ہیں۔ "أشد حذفاً فیرک"
یعنی تیار ہو جاؤ۔ "أخذک اذ نالہ
بجذفایہ و بجذفویہ۔ و
بجذفایہ"۔ اس نے وہ سب
لے لیا۔
حذقی (دس) وحذقی (دس) حذقا۔
وحذقا و حذقا و حذقا۔
وحذاقۃ۔ ماہر ہونا۔ صفت
(حاذق) ج۔ حذاق۔
وحذاق۔ الکتاب۔ ساری
کتاب پڑھ لینا۔ العمل۔ کام میں
ماہر ہونا۔
حذقی (دس) حذوقاً۔ الخلل
سرکہ کا بہت ترش ہونا۔
حذقی (دس) حذوقاً۔ الشیء۔ کاٹنا۔
— الخلل فاه۔ چرچاہٹ لگنا۔
حذقیہ۔ ماہر بنانا۔
تحذقی۔ ماہر ہونا و تحذقی علیہ۔
عبارت ظاہر کرنا۔
الحذقی۔ کٹ جانا کہتے ہیں۔ "حذقت
الحبل فانحذقی"۔ میں نے رسی
کو کاٹا تو وہ کٹ گئی۔
الحذفۃ۔ مٹا دینا۔ ج۔ حذق۔ و
حذاق۔ (آخری جمع شاذ ہے)
الحاذق۔ فا۔ ج۔ حذاق۔ و

اس کے مقابل بیٹھا۔
 الحَذْوَةُ والحَذْوَةُ - عطیہ بخشش
 گوشت کا ٹکڑا۔
 الحَذَاءُ - جوتہ۔ گھوڑے کا نعل۔ اونٹ
 کا موزہ۔ جر۔ آخِذِيہ۔
 الحَذَاءُ - جوتہ بنانے والا۔ جر۔ حذاً وَاوَن
 کہا جاتا ہے "هو محاذك" وہ
 تمہارے سامنے اور مقابل ہے۔
 حَذِي (ض) حَذِيًّا - الخَلَّ لِسَانَهُ۔
 سرکہ کا زبان کو چھیل دینا۔
 بَدَّہ - ہاتھ کاٹنا۔
 ۵ بِلِسَانِهِ - غیبت کرنا۔ گالیاں
 دینا۔
 أَحْذَاهُ إِحْذَاءً - مال غنیمت کا حصہ
 دینا۔ احْذَاهُ طَعْنَةً - نیزہ مارنا
 الْحَذِيَّاءُ وَالْحَذِيَّاءُ وَالْحَذِيَّاءُ
 وَالْحَذِيَّاءُ - مال غنیمت کا حصہ۔
 الْحَذِيَّاءُ - بشارت سنانے والے کو دیا
 جانے والا ہدیہ۔ مُبَشِّرٌ کا تحفہ۔
 إِحْذَاءً - لوگوں کی بہت عیب جوئی کرنے
 والا۔ بہت غیبت کرنے والا۔
 حَزْرٌ (س ن ض) حَزْرًا وَحَزْرَةً - غلام کا
 آزاد ہونا۔ (د - حَزْرِيَّةً)
 شریف الاصل ہونا۔ خاندانی شریف ہونا۔
 (حَزْرَةً) - پیاسا ہونا۔
 حَزْرٌ (س ن ض) حَزْرًا وَحَزْرَةً -
 حُرُورًا وَحَزْرَةً - گرم ہونا۔
 حَزْرٌ (س ن ض) حَزْرًا - المَاءُ - گرم کرنا۔
 الاسْمَعْنِ - زمین برابر کرنا۔
 حَزْرٌ - العبد - غلام کو آزاد کرنا۔
 الولد - الشئ - خدائے کی
 عبادت کے لیے وقف کرنا۔
 الکتاب - کتاب کو خوبصورت و
 درست لکھنا۔ الوزن - وزن
 ٹھیک کرنا۔ المعنى - معنی

الحَذَامُ وَالْحَذَامُ وَالْحَذَامُ -
 مِنَ السُّبُوفِ - کاٹنے والی تلوار۔
 الحَذَامُ - پرکٹے پرندے کی اڑان۔
 حَذَامٌ - میامہ کی ایک عورت جس کی
 نظر بہت تیز تھی اور زرقاء الیمامہ
 کہلاتی تھی۔
 الحَذَامُ - سست۔ کابل۔ کہتے ہیں۔
 "أَشْتَرِي عَبْدًا حَذَامًا مَشِيًّا"
 اس نے ایک سست رفتار غلام خریدا۔
 حَذَادُنَ، حَذَوًا وَحَذَاءً -
 النعل - جوتہ کو نمونہ پر کاٹنا۔
 حَذَا النعل بِالنعل - ایک برابر قطع
 کرنا۔ حَذَاهُ وَحَذَا حَذْوَهُ -
 پیروی کرنا۔ نقل کرنا۔ حَذَاهُ وَ
 حَذَالَهُ وَأَحْذَاهُ - نعلاً
 جوتہ پہنانا۔ جوتہ دینا۔ یا اس کو
 بنانا۔
 حَذَا الشَّوَابَ لِسَانَهُ - زبان کو چھیل
 دینا۔ التَّوَابُ فِي وَجْهِهِمْ
 خَاكٌ ذُلًّا - زیداً اشیاء
 کسی کو کچھ دینا۔
 حَذَاهُ وَحَذَاهُ وَحَذَاهُ وَحَذَاهُ -
 مقابل میں ہونا۔ مقابل میں بیٹھنا۔
 تَحَازَا - ایک دوسرے کے سامنے ہونا
 کہا جاتا ہے۔ بنو فلان يتحاذون
 الماء - بنو فلان پانی آپس میں برابر
 بانٹتے ہیں۔
 إِحْتَذَى - جوتہ پہنانا۔ مثال فلان
 وعلى مثاله - کسی کی پیروی کرنا۔
 مشابہت پیدا کرنا۔
 اسْتَحْذَاهُ - جوتہ طلب کرنا۔
 الْحِذَاءُ وَالْحِذَاءُ وَالْحِذَاءُ وَالْحِذَاءُ
 سامنے مقابل کہتے ہیں "داری حذاء داره"
 میرا گھر اس کے گھر کے سامنے ہے۔ و
 جَلَسَ حِذَاءَهُ وَبِحِذَائِهِ - وہ

حِذَائِي - من الخَل - بہت تیز سرکہ۔
 ماہر۔ ہوشیار۔
 الْحِذِيْن - کٹا ہوا۔
 الْأَحْذَائِي - ٹکڑے۔ کہتے ہیں "حبل
 احذاق" کٹی ہوئی رسی۔ جمع کے
 ساتھ صفت لاتے ہیں۔ جس طرح
 ثواب اخلاق میں۔
 الْحِذَائِيَّة - تھوڑا کھانا۔
 الْحِذَائِي - فصیح اللسان۔ تیز چھری۔
 گدھے کا بچہ۔
 حِذَلْتُ (س) حَذَلْتُ الْعَيْنَ - آنکھ
 کی پلکیں گرنا۔ صفت (حَذَلَاءُ)
 أَحْذَلُ - العين - پلکوں کے بال
 گرنا۔
 أَتَحْذَلُ - علیہ۔ کسی پر مہربان ہونا۔
 الْحَذَلُ - میلان۔ (د) وَالْحَذَلُ وَالْحَذَلُ
 کپڑے کے دامن کی گولائی۔
 الْحَذَلُ - ایک قسم کا سرخ گوند۔ جو چاول
 یا کسی اور چیز کی بھوسی۔ قمیض کے
 دامن کی گولائی۔
 حَذَلْتُ وَتَحْذَلُ - مہارت ظاہر کرنا۔ یا
 مہارت کا دعویٰ کرنا کہتے ہیں "اِنَّهُ
 يَتَحْذَلُ فِي كَلَامِهِ" وہ اپنی
 گفتگو میں ظریف اور ہوشیار بنتا
 ہے۔
 حَذَلْتُ - الشئ - تیز کیا جانا۔ رجل
 (حَذَلْتُ) گپٹی آدمی۔
 حَذَلْتُ - جلدی کرنا۔ العود -
 لکڑی کو چھیل کر تیز کرنا۔
 السقاء - مشک کو بھرنا۔
 تَحْذَلْتُ - جلدی کرنا۔ باادب ہونا۔
 الْحَذَلُ - ہلکا پھلکا۔ سبک رفتار۔
 حَذَمَهُ (ض) حَذَمًا - کاٹنا۔
 (د) حَذَمًا - فی مثنیہ۔
 تیز چلنا۔ دیر کرنا۔

کو خشو زوائد سے پاک کرنا۔
أَحْرَ - النهارُ دن کا گرم ہونا۔ أَحْرَ
صَدْرَه - پیاسا کرنا۔ پیاس
لگانا۔

تَحْرَسُ - العبدُ غلام کا آزاد ہونا۔
اسْتَحْرَ - القِتَالُ لڑائی کا تیز ہونا۔
الْحَرَّ - گرمی۔ ج۔ حَوْرٍ واحارِس۔
(خلاف قیاس)

الْحَوْرُ - گرم ہوا۔ آگ۔ سورج کی گرمی۔
الْحَارَّة - گرمی۔

الْحَرِيَّةُ وَالْحَرُورَةُ وَالْحَرُورِيَّةُ
وَتَصْنَعُ الْحَارَ فِيهِمَا۔ آزادی
الْحَرِيَّة - خالص ہونا۔ حُرِّيَّةُ الْقَوْمِ۔
قوم کے شریف لوگ۔ کہا جاتا ہے۔
”ہو من حُرِّيَّةِ قَوْمِهِ“ وہ اشراف
قوم سے ہے۔

الحريد - ریشم۔ ریشم کا بنا ہوا کپڑا۔
(— والمحرورس) غصہ کی گرمی
والا۔

الْحَرِيدَةُ - ریشمی کپڑے کا ٹکڑا۔ دودھ
گھی اور آٹے سے تیار کیا ہوا کھانا۔
غصہ کی گرمی والا۔

الْحَرَّ - آزاد۔ شریف۔ من کل شئٍ
ہر شے کا عمدہ حصہ۔ کہتے ہیں۔

فَرَسٌ حَرٌّ - اسیل گھوڑا۔
وطينٌ حَرٌّ - ریت نہ ملی ہوئی مٹی۔
حَرَّ الدَّارِ - گھر کا درمیان و بیچ۔
حَرَّ الارضِ - زمین کا اچھا حصہ۔
حَرَّ الوجْهِ - رخسارہ۔ کہتے
ہیں۔ ”لطمه على حَرِّ وجهه“

اس نے اس کے گال پر طمانچہ مارا۔
ج۔ احوار و حار۔ واحرار

البُقُول - وہ سبزیاں جو خام کھائی
جاتی ہیں جیسے کاہو وغیرہ۔

الْحَرَّ - کبوتر کا بچہ۔ شکرا۔ باز۔

ساق حَرَّ - نر قری۔
عين حَرَّ - ایک پرندہ۔

الْحَرَّة - حُرْكَ مَوْنُث۔ آزاد عورت۔ شریف
عورت۔ بیگم۔ ج۔ حوائِث و حَوَات
ارض حَرَّة - وہ زمین جس میں
ریت نہ ملی ہو۔ رَمْلَةٌ حَرَّة
وہ ریت جس میں گار نہ ہو۔ لیلۃ
حَرَّة اولیلۃ حَرَّة - ہر مہینہ کی
پہلی رات۔

الْحَرَّة - سیاہ پتھروں والی زمین۔ ج
حَوَات و حَوَات و حَوَات و
حَوَات۔

الْحَرَّة - پھنسی۔ دردناک عذاب۔
بہت تاریکی۔

الْحَرَّة - پیاس۔ کہتے ہیں۔ ”رماہ اللہ
بالْحَرَّة تحت الْقِرَّة - یعنی اللہ
تعالیٰ نے اس کو سردی کے موسم میں
پیاس میں مبتلا کیا۔

الحارِس - گرم۔ من الاعمال۔ دشوار
کام۔

الْحَوَان - سخت پیاسا۔ مَوْنُث۔ حَرَّی
ج۔ حَوَات و حَوَات۔

الحريدي - ریشم کا بنانے والا۔ ریشم کا
نیچنے والا۔ مقامات مشہورہ کے
مصنف کا لقب۔

المحرورس - اپنے اندر گرمی رکھنے والا۔
حَرَبٌ (ن) حَرَبًا - الرجل۔ سب

کچھ لوٹ لینا یا چھین لینا۔ صفت
مفعولی۔ (حَرَب) ج۔ حَرَبی و

حرباء و (محروب)
حَرَب - الرجل مَالَه۔ کسی کا مال

چھینا جانا۔
حَرَب (س) حَرَبًا - کہتے کے کاٹے

کی دیوانگی والا ہونا۔ سخت غضبناک
ہونا۔ صفت (حرب) یعنی نہایت

غصہ ناک۔ ج۔ حَرَبی - وحرب
الرجل - ہلاکت کو بلانا۔ ہائے
افسوس ہائے افسوس کہنا۔

حَرَبَه - غضبناک بنانا۔ حَرَب
السنان - نیزے کے پھل کو تیز کرنا۔
حَارَبَه حَرَابًا و حَارَبَه -
لڑائی کرنا۔

أَحْرَبَ الْحَرَب - لڑائی کو بھڑکانا۔
فَلَانًا۔ دشمن کے مال کے لوٹنے
کے لیے کسی کی رہنمائی کرنا۔

النخل - کھجور کا شگوفہ نکالنا۔
تَحَارَبَ و احترَب - القوم۔

لڑائی کی آگ بھڑکانا۔
إحْرَبْنِي - احْرَبْنَا - شرارت و غصہ

کے لیے تیار و آمادہ ہونا۔ چت لیٹ
کر آسمان کی طرف اپنی ٹانگیں اٹھانا۔

— المكان - وسیع ہونا۔
الْحَرَب - جنگ۔ لڑائی۔ کہتے ہیں۔

”دقعت بینہم حرب“
ان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ کلمہ

مؤنفس ہے اور کبھی مذکر بھی مستعمل
ہوتا ہے اس کی تصغیر حَرَب

آتی ہے۔ ج۔ حَرُوب -
رجلٌ حَرِبٌ - شجاع۔ جنگ جو

آدمی۔ کہا جاتا ہے۔ ”أَنَا حَرِبٌ
لِمَنْ يُحَارِبُنِي“ جو مجھ سے

لڑے میں اس کا دشمن ہوں۔
— دار الحوب - دشمنوں کا

ملک۔ وہاں کے رہنے بسنے والے
”حَرَبِيَّوْن“ کہلاتے ہیں۔

الْحَرَبَةُ - نیزہ۔ برہمی۔ برہما۔ ج۔
حَوَاب۔

الْحَرَبَةُ - نیزہ مارنا۔ مال چھیننا۔
دین کا فساد۔ جمعہ کا دن۔ ج

حَوَابَات و حَوَابَات۔

الْحَوَاب - نیزہ بردار یا نیزہ بنانے والا۔
 الْحَوْبَةُ - جنگ کی ہیئت۔
 الْحَرْبَاءُ وَالْحَرْبَاءَةُ - گرگٹ۔
 تلوں مزاجی کے لیے یہ بطور مثل مشہور ہے۔ ج۔ حَوَابِي۔
 الْحَوْبَاءُ - زرہ کی میخ پشت کا گوشت۔
 الْحَوْبُ - مص۔ ہلاکت۔ تباہی خرابی۔
 وَاحِدٌ بَا - افسوس۔ کیسا افسوس۔
 ہائے افسوس۔
 الْمَحْبُوبُ وَالْمَحْبُوبَات - جنگجو۔ لڑاکا بہادر۔
 الْمَحْبُوبَات - گھر کا شروع کا حصہ۔
 اچھی جگہ۔ صدر مجلس۔ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ کچھار۔ و۔
 محراب مسجد۔ امام کی جگہ۔ قبلہ۔
 ج۔ مَحَارِبُ - کتے ہیں۔
 إِنَّهُ يَكْرَهُ الْمَحَارِبَ - یعنی وہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ صدر مجلس میں بیٹھے اور لوگوں سے ممتاز ہو۔

الْحَوْبُش وَالْحَوْبُش - اژدہا۔
 حَوْرَتَان، حَوْرَتَا - الشَّيْءُ - سخت ملنا۔
 حَوْرَت (س)، حَوْرَتَا - الرَّجُلُ - کسی کا بد خلق ہونا۔
 الْحَوْرَت - مص۔ جانور کے چبانے کی آواز۔
 الْحَوْرِيَّت - ایک قسم کی مچھلی۔
 حَوْرَتَان (س)، حَوْرَتَا - الْأَرْضُ - زمین میں ہل چلانا۔ کھیتی بونا۔
 صفت (حَوْرَت)، ج۔ حَوْرَات۔
 وَحَوْرَات، حَوْرَتَا - الْمَالُ - مال کا مانا جمع کرنا۔ الناس۔
 آگ کرینا۔ الشَّيْءُ - کسی چیز کا اچھی طرح مطالعہ کرنا۔
 الْأَمْرُ - کسی امر کو یاد کر کے

بھڑک جانا۔ الْخَبْرُ - روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 (س) وَاحْوَرْتُ وَاحْوَرْتُ - الدَّابَّةُ - جانور کو تھکانا۔ لاغر و ہلا کرنا۔ صفت مغولی (حَوْرِيَّة)۔
 ج۔ حَوَارِث۔
 احْوَرْتُ - الْأَرْضُ - زمین جوتنا۔
 (س) الْمَالُ - مال کا مانا۔
 الْحَوْرُ - مص۔ کھیتی۔
 الْحَوَارِثُ - فا۔ ج۔ حَوَارِث۔
 الْحَوَارِثُ وَالْحَوَارِثُ - شیر کی کنیت۔
 الْحَوْرِيَّةُ - ج۔ حَوَارِثُ - کماٹی۔
 الْحَوْرَانَةُ - کھیتی۔ کاشتکاری۔
 الْحَوْرُثُ - ج۔ مَحَارِث۔
 وَرَالِحَوْرَات، ج مَحَارِثُ - ہل۔
 آگ ہلانے کی سیخ۔ کرلنی۔
 حَوْرَج (س)، حَوْرَجَا - الشَّيْءُ - تنگ ہونا۔
 (س) الرَّجُلُ - مجرم ہونا۔
 الْعَيْنُ - آنکھ کے دھنس جانے کی وجہ سے چندھیانا۔
 عَلَيْهِ الشَّيْءُ - حرام ہونا۔
 الْيَهُ - الیہ۔ تنگ ہو کر پناہ لینا۔
 الْغَارُ - غبار کا تنگ مقام میں گھٹنا۔
 حَوْرَج (ن)، حَوْرَجَا - انبیاء۔
 عَصَا سے دانت پسینہ۔
 حَوْرَجَہ - تنگ کرنا۔ حَوْرَجُ - علیہ۔ کسی سے کہنا کہ تو تنگی میں ہے۔
 آخِرَجَہ - گناہ میں مبتلا کرنا۔ تنگی میں ڈالنا۔
 تنگ جگہ کے لیے مجبور کرنا۔
 (س) فَلَانَا الْيَهُ - مضطر کرنا۔
 اَحْرَجَہ - علیہ الامر۔ حرام کرنا۔
 ناجائز ٹھہرانا۔

تَحْوَج - گناہ سے بچنا۔
 الْحَرْج - گناہ۔ گھنے درختوں والی تنگ جگہ۔ مڑو لے جانے کا تختہ۔
 حرمت۔ کہتے ہیں۔ "لَا حَرْجَ عَلَيْكَ" تمہارا کوئی قصور نہیں۔ یا تم پر کوئی اعتراض نہیں۔ عرب کہتے ہیں۔
 "حَدَّثَ عَنْ الْبَحْرِ وَلَا حَرْجَ" سمندری حالات بیان کرو اور مبالغہ وغیرہ کا تم پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔
 الْحَرْج - گناہ۔ کوڑی۔ شکار میں سے کتے کا حصہ۔ دزدوں کے شکار کے لیے رسیوں کا پھندا۔ بکریوں کا ریوڑ۔
 ج۔ أَخْرَجَ وَجَوَّاج۔
 الْحَرْج - تنگ۔ لڑائی میں ثابت قدم۔
 گھنے درختوں کی تنگ جگہ۔ وہ شخص جو کسی معاملہ میں پیش قدمی کرنے سے خوف کھائے اور ڈرے۔
 الْحَوْرَجَةُ - درختوں کا بھنڈ۔ بکریوں یا اونٹوں کا ریوڑ۔ ج۔ حَوْرَجُ وَ حَوْرَجَات۔
 الْحَوْرِيَّةُ - تنگ۔
 الْمَحْوَرَج - من الیالی۔ بہت ٹھنڈی رات۔
 الْمَحْوَرَج - تنگ کرنے والا۔ کہتے ہیں "حَلَفَ بِالْمَحْوَرَجَاتِ" اس نے تنگی میں مبتلا کرنے والی قسمیں کھائیں۔
 حَوْرَجَل - حَوْرَجَلَةُ - لمبا ہونا۔
 تیزوڑنا۔ دائیں بائیں پاؤں مارنا۔
 الْحَوْرَجَلَةُ - مص۔ لنگڑاپن۔
 (س) وَالْحَوْرَجَلُ - گھوڑوں کا گلہ کہتے ہیں۔ "جَاوَا حَوْرَجَلَةً" وہ اپنے گھوڑوں پر آئے۔
 الْحَوْرَجَلُ وَالْحَوْرَجَلُ - لمبا۔ طویل۔
 حَوْرَجَم - الابل۔ اونٹوں کو ایک



دوسرے پر گرتے ہوئے واپس کرنا۔
 اَحْرَئِجْمَ - القوم اوالا بل۔
 اکٹھا ہونا۔ بھیڑ کرنا۔
 عَنِ الْأَمْرِ - کسی امر کا ارادہ کر کے ہٹ جانا۔
 حَرَدَ (س) حَرَدًا و حَرَدًا - علیہ کسی پر ناراض ہونا۔
 صفت (حَارِسٌ و حَرَدٌ و حَرَدَان) - الوتر۔
 کمان کے تاروں میں بعض کا بعض سے لبا ہونا۔ صفت (حَرَدٌ) حَوْدَه (رض) حَرَدًا - منع کرنا۔ ارادہ کرنا۔
 الخشب - کٹمی میں سوراخ کرنا۔ (حَرَدًا) اپنی قوم سے جدا ہو کر تنہا اور اکیلا ہونا۔ صفت (حَرَدٌ و حَرَدٌ) ج۔ حَرَادٌ و حَرِيدٌ ج حَرْدَاءٌ۔
 حَرَدٌ - بھونپڑی میں پناہ لینا۔
 الشعر - ایک بال کا تنہا اگنا۔
 ۵ - منع کرنا۔ حَرَدَ الْحَبْلُ۔ رسی بٹنا۔
 الشیء - ٹیڑھا کر دینا۔
 اَحْوَدٌ - علیحدہ کر دینا۔ اَحْوَدٌ فی المشیء - جلدی چلنا۔
 تَحَوَّدٌ - الایدیئم۔ اوصوڑی کے بال گرنا۔
 حَارَدَتِ - الناقۃ - اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔ صفت (حَرُوْدٌ مُحَارِسٌ) - السنۃ - سال کا کم بارش والا ہونا۔
 حَارَدٌ - الوجُلُ - پتے دینا اور پھر دینا بند کر دینا۔
 الحَرَدٌ - اکیلا رہ جانا۔ النجم۔ ستارہ ٹوٹنا۔

الحَرَدٌ - مص۔ اونٹ کی اگلی ٹانگ کے پٹھے کا ڈھیلنا۔
 الحَرِيدٌ - دور۔ خشک کی ہوئی مچھلی۔ بہت میں سے تھوڑی چیز۔
 الاَحْرَدُ - حَرَدٌ - کی بیماری کا مریض بچل۔ کینہ۔ زہ کے بوجھ کی وجہ سے اچھی طرح نہ چل سکے والا۔ ج۔ حَرْدٌ۔
 الحَرْدُونُ - گرگٹ کے مشابہ ایک جانور۔ نرسوسمار۔
 حَرَدَانِ (حَرَدَان) - المال۔ حفاظت کرنا۔ اکٹھا کرنا۔
 حَرَدَانِ (س) حَرَسًا - پرہیزگار ہونا۔ حَرَسَانِ (س) حَرَاةٌ و حَرَاةً - مکان۔ جگہ کا محفوظ ہونا۔
 حَرَسٌ - الشیء - محفوظ رکھنے میں مبالغہ کرنا۔ (س) و اَحْرَسٌ مکان الوجُل۔ کسی جگہ کا کسی کے لیے جائے پناہ بننا۔
 اَحْرَسَ الشیء - جمع کرنا۔ محفوظ رکھنا۔ ذخیرہ رکھنا۔
 تَحَرَسَ و اَحْتَرَسَ - منہ۔ بچنا۔ استحضار۔ محفوظ جگہ میں آ جانا۔
 الحَرَسُ - محفوظ مقام۔ کہا جاتا ہے۔ "حَرَسٌ۔ حَرِيزٌ و حَارِسٌ" بہت محفوظ مقام۔ حصہ۔ کہتے ہیں "اَحَذَ حَرَسًا" اس نے اپنا حصہ لیا۔ ہر چیز جو اشیاء کی حفاظت کے کام میں آئے۔ جیسے صندوق وغیرہ۔ ہر وہ شے جو ضائع اور تلف ہونے سے بچائے۔ فی اصطلاح المعوذین۔
 تعویذ۔ ج۔ اَحْوَانٌ۔
 الحَرَسُ - مص۔ اغوٹ جس سے بچے کھیل کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو محفوظ

کی گئی ہو۔ ج۔ اَحْوَانٌ۔
 الحَرِيزُ - جمع کردہ شے۔ کہتے ہیں۔ "لا حَرِيزَ مِنْ بَیْعٍ" یعنی اگر اس نے حسب خواہش قیمت دے دی تو مجھے بیع سے انکار نہیں ہوگا۔
 الحَرِيزَةُ - من الا بل۔ وہ اونٹ جن کو عمدگی کی وجہ سے فروخت نہ کیا جائے۔ ج۔ حَرَايزُ۔
 حَرَسَہ (مضان) حَرَسًا - حفاظت کرنا۔ صفت (حَارِسٌ) ج۔ حَرَسٌ - و حَرَسَہ - و حَرَسٌ و اَحْوَانٌ۔
 حَارِسُ السَّمَاءِ و حَارِسُ السَّمَاءِ دوستاروں کے نام۔
 حَرَسٌ (رض) حَرَسًا و اَحْتَرَسَ۔
 الشیء - رات میں چوری کرنا۔
 حَرَسٌ (س) حَرَسًا - لمبی زندگی پانا۔
 اَحْرَسَ - بالمکان۔ کسی جگہ حفاظت کے لیے مقیم ہونا۔
 تَحَرَسَ و اَحْتَرَسَ - منہ۔ کسی سے محفوظ رہنا۔ بچ کر رہنا۔
 الحَرَسُ - مص۔ زمانہ۔ کہتے ہیں۔ "مَعْنٰی عَلَیْہِ حَرَسٌ" اس پر ایک زمانہ گذر گیا۔ ج۔ اَحْوَانٌ۔
 الحَرَسُ - حفاظت کرنے والے۔
 "و حَرَسُ الْمَلِكِ" شاہی محافظ۔
 ہاڈی کارڈ۔ واحد (حَرَسِی)۔
 الحَرَسَانُ - دن رات۔
 الحَرَسَانَةُ - حفاظت۔
 الحَرِيسَةُ - بکریوں کا باڑہ۔ رات کو چوری کی ہوئی بکری۔ چوری۔ ج۔ حَرَايسُ۔
 الاَحْوَسُ - وہ پرانا جس پر ایک زمانہ گذر گیا ہو۔
 حَرَسٌ (رض) حَرَسًا و حَرَايَا۔



— الضَّبِّ - سوسمار کا شکار کرنا۔
 — البعير - اونٹ کا اپنی پیٹھ کو
 رسی سے رگڑنا تاکہ وہ تیز چل سکے۔
 — الرجل - خراش لگانا۔
 حَرْش (س) حَرْشًا - کھردرا
 ہونا۔ صفت (ا حَرْش) —
 الرجل - دھوکا دینا۔
 حَرْش - بین القوم و بین
 الکلاب و السباع - ایک
 دوسرے کے خلاف آسانا۔
 تَحْش - بہ - مقابلہ کرنا۔ تعرض
 کرنا۔
 تَحْش - الضَّبِّ و بالضَّبِّ -
 گوہ کا شکار کرنا۔
 احْتَرَش - الشئ - جمع کرنا۔
 القوم - قوم کا اکٹھا ہونا۔
 الرجل - دھوکا دینا۔
 لعیالہ - اپنے اہل و عیال کے
 لیے گمانا۔ الضَّبِّ - گوہ
 کا شکار کرنا۔
 الحَرْش - مص - اثر - دھوکا۔ جماعت
 ج - حَرَّاش -
 الحَرْش - کھردرا۔ وہ شخص جس کو
 نیند نہ آتی ہو۔
 الحَرْش - والحَرْش - کنکھورا۔
 ہزار پا۔ ج - حَرْش -
 الحَرْش - ایک دریائی جانور۔ گینڈا
 کوڑیا لاسانپ۔
 الحَرْش - کہتے ہیں "اخرجت
 لہ حَرْش" جو کچھ میرے
 قبضہ میں تھا وہ سب میں نے اس
 کے لیے نکال دیا۔
 الحَرْش - من الحیات - سیاہ
 پرانا سانپ۔
 الاحْش - کھردری گوہ۔ دینار

احرش - نیا کھردرا دینار۔
 ج - حَرْش -
 الحَرْش - مچھلی کے کھپے۔ چھوٹے
 پرندے۔ وہ ٹڈی جس کے ابھی پر
 نہ نکلے ہوں۔ زرہ کی کڑیاں۔ کمزور
 بوڑھے۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ
 ثَمَّةُ غَيْرِ حَرْشٍ رَجَالٌ"
 یعنی وہاں سوائے کمزور بوڑھے
 لوگوں کے کوئی نہیں۔ پیادوں کی
 جماعت۔ سمندر کے کنارہ کے
 پتھر ج - حَرَّاش -
 الحَرْش - سخت زمین۔
 حَرْش (ن) حَرْشًا - الجلد۔
 چمڑا پھیلنا۔ القصاص
 الثوب - دھونے یا کوٹنے میں
 پھاڑنا۔
 حَرْش (ن) و حَرْش (س)
 حَرْشًا و احْتَرَش -
 علی الشئ - حرص کرنا۔ لالچ کرنا
 بہت چاہنا۔ صفت (حَرْش)
 ج - حَرْشًا و حَرْشًا - و
 حَرْشًا - مؤنث - حَرْشًا۔
 ج - حَرْشًا - و حَرْشًا۔
 حَرْش - المرعى۔ چراگاہ کا بالکل
 پر لیا جانا۔
 حَرْش - علی الشئ - مشتاق بنانا
 حرص و لالچ دلانا۔
 حَرْش - بتکلف لالچ کرنا۔ وقت کا
 انتظار کرنا۔ اور اسی سے ہے یہ
 کلام "هُوَ يَحْرِصُ عَدَاوَهُمْ
 و عَشَائِهِمْ" وہ ان لوگوں کے
 صبح و شام کے کھانے کے وقت کی
 تاک میں رہتا ہے۔
 الحَرْش - مص - لالچ۔
 الحَرْش و الحَرْش و الحَرْش

وہ زخم جو چمڑے کو پھاڑ دے۔
 الحَرْش و الحَرْش - وہ
 بادل جو سخت بارش سے زمین کو
 پھیل ڈالے۔
 حَرْش (ن) حَرْشًا و حَرْشًا
 (س) حَرْشًا و حَرْشًا (دک)
 حَرْشًا - بری بیماری میں مبتلا
 ہو کر لاغر و ناتوان ہونا۔ صفت
 (حَرْش) و حَرْشًا و حَرْشًا و
 حَرْشًا - کہتے ہیں "نَاقَةُ"
 حَرْشًا - لاغر و ناتوان اونٹنی۔
 حَرْش - (ن) حَرْشًا - نفسہ۔
 اپنی جان کو خراب کرنا۔
 حَرْش - علی الامور - کسی امر پر آسانا
 برا ٹیکہ کرنا۔ فلاناً۔
 کسی کی بدنی یا عقلی خرابی کو دور کرنا۔
 — الشئ - خراب کرنا۔ بگاڑنا۔
 حَرْش - گرانہ - الحَرْش
 أو الحَرْش - غم یا بیماری کا بدن
 کو گھلا دینا۔ ہ علی الشئ۔
 ترغیب دینا۔
 حَرْش - علی العمل - کام پر ہمیشگی
 اختیار کرنا۔ فلاناً۔ تیرکی
 چمڑے سے ایک دوسرے کو مارنا۔
 حَرْشًا - علی العمل - کام پر
 ایک دوسرے کو برا ٹیکہ کرنا۔
 الحَرْش - بدن - مذہب یا عقل کی
 خرابی۔ حَرْش الثوب - کپڑے
 کا حاشیہ۔
 الحَرْش و الحَرْش - اشنان جس
 سے کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے
 جلتے ہیں۔
 الحَرْش - رذیل ناقص الحال آدمی۔
 جس کو کوئی پاس نہ آنے دے۔
 ج - حَرْش -



المُحَرَّض - وہ جس کو غم نے گھلا دیا ہو
(- والحریف، گرا ہوا جو
اٹھ نہ سکے۔

حَرَفَ (ض) حَرَفًا - الشَّيْءَ
عن وجهه - پھیر دینا۔ جھکا دینا۔
- عن الشَّيْءِ - مائل ہونا۔
لعیالہ - اپنے عیال کے لیے
ادھر ادھر سے کما کر لانا۔

حُوف - في ماله - حُرْفَةٌ -
کچھ ضائع ہو جانا۔

حَرَفَ - القول - بات کو بدل دینا
تبدیل کرنا - القلم - قلم
کو ٹیڑھا قلم دینا - الشَّيْءَ -
چیز کا کنارہ بنانا۔ جھکانا۔

حَاسَفَ - معاملہ کرنا۔ اور اسی سے
ہے - فَقَدْ عَمِلُوا فِي الْغَدُو

کیف نحارف - ان کو پتہ چل
گیا کہ ہم لڑائی میں ان کے ساتھ کیسا
معاملہ کرتے ہیں - الرجل -
کسی کو برائی یا بھلائی کا بدلہ دینا۔

- الجوح - زخم کو سلائی سے
مٹولی کر اس کا اندازہ لگانا۔

أَحْرَفَ - بد حالی کے بعد خوشحال ہونا۔
اہل و عیال کے لیے محنت

و مشقت برداشت کرنا -
الناقلة - اونٹنی کو دہلا کرنا -
الرجل - کسی کو بھلائی یا برائی کا
بدلہ دینا۔

تَحَوَّفَ عَنْهُ - وَانْحَوَّفَ وَ
أَحْوَوْسَفَ - کسی سے مائل

ہو کر ایک طرف ہو جانا -
تَحَوَّفَ لِعِيَالِهِ - ہر پیشہ سے

عیال کے لیے کماٹی کرنا۔
أَحْتَوَّفَ - کوئی پیشہ اختیار کرنا۔

تلاش کرنا۔ جیلہ کرنا -

لاهلہ - اہل و عیال کے لیے کماٹی
کرنا۔

الْحُوف - ج - حُوف - کنارہ۔ دھار

سرا - حرف الجبل - پہاڑ کا
تیز سرا - کہتے ہیں "فلان علی

حرف من امره" - فلاں شخص
معاملہ کے کنارہ پر ہے یعنی اگر کوئی

چیز بھی خلافِ خاطر ہوئی، تو وہ
فوراً اس سے کنارہ کشی اختیار

کرے گا - الْحُوف - پانی
کے بہاؤ کی جگہ - حرف السفينة

او المنهر - کشتی یا دریا کا کنارہ
الْحُوف - ج - حُوف - آحُوف

حروف تہجی میں سے ایک حرف
جس کو "حرف المبتنی" کہتے ہیں -

في النحو - وہ کلمہ جو دوسرے
سے مل کر معنی دے - اور اس کا نام

"حرف المعنی" ہے - کلمہ جیسے
کہتے ہیں یہ حرف قاموس میں نہیں -

یعنی یہ کلمہ اس میں نہیں ہے -
الْحُوف - ہالوں کے دانے - واحد

(حُرْفَةٌ) رائی -
الْحُوف - محرومی۔

الْحُوفَةُ - پیشہ - ہنر -
حَرْيَفٌ - الرجل - ہم پیشہ -

ج - حُرَفَاء -
الْحُوفَةُ - محرومی - بد بختی -

الْحُوفَةُ - چرپرہٹ -
الْحُوفِيْف - چرپرہٹ لگانے والی

چیز - کہتے ہیں "هذا لبصل
حريف" - یہ پیاز تیز ہے -

المُحَرَّض - پیشہ ور -
المُحَرَّض - وہ شخص جس کا مال جاتا رہا ہو

المُحَرَّض - محروم - پھوٹی قسمت والا -
حَرَقَهُ (ض) حَرَقًا - بالناس - آگ

سے جلاتا - بالمبرد - ریتی
سے رگڑنا - المشي - بعض کو

بعض سے رگڑنا -
حَرَقَ (ض) حَرَقًا وَحَرِيقًا وَ

حُرُوقًا - فاء - بلہ - عَلَيْهِ -
دانت پسینا - کہتے ہیں "فلان

يَحْرِقُ وَيَحْرِقُ عَلَى الْأَسْمَدِ" -
یعنی وہ میرے اوپر مارے غصہ کے

دانت پیتا ہے -
حَرَقَ (ض) حَرَقًا - شعْرُهُ - بال کا

رگڑنا - یا کٹ جانا - صفت -
(حَرَقَ) الشعر -

حَرِيقٌ وَحَرِيقٌ - کسی کے پاؤں کے
پٹے یا رگ کا کٹا ہوا ہونا -

حَرَقَهُ وَأَحْرَقَهُ - بالناس -
آگ سے جلاتا - حَرَقَ المردعي

الابل - چراگاہ کا اونٹ کو پیاس
لگانا - پیاسا کرنا -

تَحَرَّقَ - وَاحْتَرَقَ - جلنا -
الْحَرَقُ وَالْحَرَقُ - مص - جلن -

الْحَرَقُ - بہت بجلی چمکانے والا بادل -
چھوٹے بال -

الْحَرَقَةُ وَالْحَرَقَةُ - جلن - حرارت
کہتے ہیں "في جوفه حرقه" اس

کے پیٹ میں گرمی ہے -
الْحَرَقَةُ وَالْحَرَقَةُ - الحَرَقَةُ -


من السُّيُوف - تیز کلٹنے والی
تلواریں -

الْحَرَقُ وَالْحَرَقُ - ہر شے کو خراب
کرنے والا - الْحَرَقُ - بہت

کھاری پانی - بہت تیز دوڑنے والا
گھوڑا -

الْحَرِيقُ - آگ کی بھڑک - آگ کا شعلہ
جلا ہوا - گرمی سردی یا کسی اور چیز

سے جلی ہوئی نباتات - ج -



ہونا۔

کاکر زور ہونا۔ صفت (حَوِیْکَ)
مؤنث (حَوْنِکَ)

وَحُرْمَات

الْحُرْمَةُ - حفاظت۔

الْحَوِيلَةُ - مص۔ حرام شے جس کو بسبب حرمت چھو نہ سکیں۔ محرم کا کپڑا۔

حویلہ الرجل - قابل حفاظت

چیز اور اسی لیے بیوی کو حصریم

کہتے ہیں۔ شاہی محل کے گرد اگر د

کی جگہ وسیع۔ ہر وہ جگہ جس کی

حفاظت واجب ہو۔ ج۔ حُرْم

وَأَحْرَمَ دَآخِرِيَهُ -

الْحُرْم - ایک شخص کی بیویاں۔

الاشهر الحُرْم - باحترمت

چار مہینے یعنی ذوالقعدہ۔ ذوالحجہ

محرم۔ رجب۔ عرب کو ان مہینوں

کی اس قدر حرمت منظور تھی کہ ان

میں لڑائی بھڑائی قطعاً بند رکھتے

تھے۔

الْحَوِيلَةُ - مص۔ مرغوب چیز جو حاصل

نہ ہو سکے۔

الْحَرَام - خلاف حلال۔ ناجائز۔

ج۔ حُرْم - کہتے ہیں۔ حرام اللہ

لَا اَفْعَلْ كَذَا " خدا کی قسم

میں ایسا کرنے کا نہیں۔ جس طرح

کہتے ہیں: یمین اللہ لَا اَفْعَلْ "

احرام باندھنے والا۔ کہا جاتا

ہے: رَجُلٌ حَرَامٌ وَقَوْمٌ

حَرَامٌ " احرام باندھنے والا۔

ایک آدمی یا احرام باندھنے والی

قوم۔ دونوں جگہ واحد کی شکل

میں آتا ہے۔ کیونکہ دراصل مصدر

ہے۔

السُّهْمُ الْحَرَام - ماہ محرم۔

الْبَلَدُ الْحَرَام - مکہ معظمہ۔

المسجد الحرام - کعبہ شریف۔

الْحَرَامِي - حرام کا کرنے والا۔

مُحَرَّم - قمری سال کا پہلا مہینہ۔

الْمُحَرَّم - جو چیز ذمہ میں ہو۔

جِلْدٌ مُحَرَّم - بے رنگا چمڑا۔

مَسْوَطٌ مُحَرَّم - نرم نہ کیا ہوا

کوڑا۔ اعرابی مُحَرَّم - اُجڑ

اکھڑ۔ دیہاتی۔

الْمُحَرَّم - ناجائز کام۔ جُرم۔

محارمُ اللیل - رات کے

خطرات۔

الْمُحَرَّم - احرام باندھنے والا۔ صلح

کرنے والا۔ وہ شخص جو کسی کی

حفاظت و پناہ میں ہو۔ کہتے ہیں

— "لَا تَهْدِمُوا حُرْمَةَ"

یعنی اس کی تکلیف تم پر حرام ہے۔

الْمُحَرَّم - غیر بھلائی سے محروم۔

وہ شخص جس کا مال نہ بڑھے۔

وہ بد قسمت شخص جو کمانے سے

عاجز ہو۔

الْمُحَرَّمَةُ وَالْمُحَرَّمَةُ - ہر وہ شے

جس کی بے حرمتی جائز نہ ہو۔ ج

محاسنہ۔ عام لوگ چھپی رومال

کو "محرمہ" کہتے ہیں۔

حَرَمَد - فی الامر۔ اصرار کرنا۔

الْحَرَمِد وَالْحَرَمِد - رنگ و بو

بدلا ہوا۔ بعض کے نزدیک سیاہ

بدبودار کیچڑ۔

حَرَمَزَة - لغت کرنا۔

الْحَرَمَل - ایک قسم کی بوٹی جو دھونی

کے کام آتی ہے۔

حَوْنٌ وَحَوْنٌ دَن، حَرُونًا وَ

حَرُونًا وَحَرُونًا — البخل۔

خچر کا اڑ جانا۔ اچانک کھڑا ہوجانا

صفت مذکر و مؤنث (حَرُون)

ج۔ حَوْن - دَحْن فی البیع۔

برابر قیمت پر پہنچنا۔ نہ کم نہ زیادہ۔

حَوْنٌ (ك)، حَرُونَةٌ - بالمكان۔

کسی جگہ سے نہ ہٹنا۔ —

العسلُ فی الخلیۃ - شہد کا

چھتہ میں ایسا چپکنا کہ اس کا نکالنا

دشوار ہو۔ وَحَوْنُ القطن۔

روٹی دھنا۔

الْمَحَوْن - دھنے کی کمانی۔

الْحَوَا - گھر کا صحن۔ کہتے ہیں: "نَزَلْتُ

بِحَوَاہُ" میں اس کے صحن میں اترا

آواز۔ گرہ۔ برنوں کے پھینے کی

جگہ۔ ج۔ أَحْوَاء۔

الْحَوَاء - لائق۔ کہتے ہیں: "بِالْحَوَا

ان یكون ذَاكَ"

الْحَوَاوَة - رائی وغیرہ کے مزے کی

تیزی۔

الْحَوَوَة - غصہ یا درود کے سبب حلق

یاسینہ یا سر میں سوزش۔ بدبو کے

ساتھ چرپراہٹ۔

حَرَوِي (رض)، حَرَوِيًا — الشیء۔

گھٹنا۔ کم ہونا۔

احوی۔ الشیء۔ گھٹانا۔ کم کرنا۔

مَا أَحْوَاهُ بَلہ۔ وہ اس کے کس

قدر لائق ہے۔

تَحَرَوِي - استعمال میں زیادہ مناسب

ولائق کو طلب کرنا۔ دو چیزوں میں

سے زیادہ بہتر کو طلب کرنا۔

— الامر۔ قصد کرنا اور فضیلت

دینا — بالمكان۔ ٹھہرنا۔

الْمَحَوِي وَالْمَحَوَاة - لائق۔ سزاوار

کہا جاتا ہے: "هَذَا الامر

محوی او محواة لذلك

او بذلك" یہ کام اس کے لائق ہے۔

الْحَوِي - ج۔ حَرَوِيُون وَاَحْوِيَاء۔

مؤنث حَرَوِيَّة۔ ج۔ حَرَوِيَات

وَحَوَايَا — (والْحَوِي)



ج۔ آخواء و الاخوی، لائق۔ مناسب۔ قابل۔ کہتے ہیں۔ ائله لَحْوِيٍّ اَوْ حَيٍّ اَوْ حَرِيٍّ بَلَدًا وَاَنْ يَفْعَلَ كَذَا۔ یعنی وہ اس چیز کے لائق ہے۔ یا فلاں کام کرنے کا اہل ہے (آخری کلمہ کا تشبیہ و جمع مستعمل نہیں) الحارِیۃ۔ چھوٹا اور پرانی عمر کا سانپ جو بہت زہریلا ہوتا ہے۔ الاخوی۔ زیادہ لائق۔ زیادہ مناسب۔ زیادہ بہتر۔ حَزَّهٗ دَنْ، حَزَّاءٌ وَاَحْتَزَّهٗ۔ کاٹنا۔ حَزَّ الْعُودَ۔ لکڑی میں شکاف ڈالنا۔ تَحَزَّرَ۔ شکاف پڑنا۔ حَزَّوْا حَزَّوْ۔ علی گروہ فلاں۔ سخاوت میں کسی سے بڑھ جانا۔ حَزَّوْا۔ اسنانہ۔ دانتوں کے کناروں کو تیز کرنا۔ حَارَۃٌ مَّحَارَۃٌ وَاَحْزَانًا۔ خوب جانچ پڑتال کرنا۔ اچھی طرح سے تلاش و جستجو کرنا۔ الحَزَّ۔ مص۔ وقت۔ غیر مذب کلام کرنے والا۔ لکڑی وغیرہ میں شکاف۔ واحد۔ (حَزَّهٗ) الحَزَّةُ۔ دل کا درد۔ وقت۔ کہا جاتا ہے۔ اِنِیْ حَزَّۃٌ اَتَّیْتُ قَضِیَّتُ حَاجَتَک۔ جس وقت تم میرے پاس آئے میں نے تمہاری حاجت پوری کی۔ درمند حالت۔ الحَزَّاءُ وَاَلْحَزَّاءُ۔ سر کی بھوسی۔ عوام حَزَّاءُ ”داد“ کو کہتے ہیں۔ مگر اس کے لیے فصیح لفظ قُوبَاءُ ہے۔ الحَزَّاءَةُ۔ غصہ وغیرہ کی وجہ سے دل

کا درد۔ کلام میں کج روی۔ ج۔ حَزَّازَاتُ۔ الحَزَّاءُ وَاَلْحَزَّاءُ۔ دل یا سینہ میں چبھ کر درد کرنے والی چیز۔ حَوَازَ۔ القلب۔ دل کو دکھ پہنچانے والے امور۔ مفرد۔ (حَارَۃٌ) الحَزَّیْز۔ سخت گفتار و عمل والا آدمی۔ ج۔ حَزَّوْا وَاَحْزَانًا وَاَحْزَانًا۔ سخت عمل کرنے والا۔ تیز ہانکنے والا۔ المَحْزَنُ۔ کاٹنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”قَطَعَ قَامَابَ الْمَحْزَنِ“ اس نے کاٹا اور درست جگہوں پر کاٹا۔ المَحْزَنُ۔ شکاف لگانے کا آلہ۔ ج۔ مَحَازِنُ۔ غیر مذب گفتگو کرنے والا آدمی۔ حَزَّاءُ (دَنْ) حَزَّاءُ۔ الابل۔ اونٹوں کو جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔ السَّوَابُ الشَّخْصَ۔ نمایاں کرنا۔ اَحْزَوْ سَمَاءَ۔ پرندہ کا پر سمیٹ کر انڈوں سے الگ ہونا۔ اونٹوں کا اکٹھا ہونا۔ حَزَبَہٗ دَنْ، حَزَبًا۔ الویل و الغم غم و مصیبت کا پہنچنا۔ یا سخت ہونا۔ حَزَبُ الْقُرْآنِ۔ قرآن کا ایک حصہ۔ مقرر کر کے پڑھنا۔ حَزَبٌ۔ القوم۔ قوم کے گروہ گروہ بنا کر جمع کرنا۔ حَازَیَہ۔ کسی کی پارٹی میں داخل ہونا۔ مدد کرنا۔ قوت پہنچانا۔ تَحَزَّبَ۔ القوم۔ جمع ہونا۔ جتنے بنتا۔ گروہ بننا۔ الحَازِبُ۔ ج۔ حَوَازِبُ و

(الْحَزِیْبُ) ج۔ حُزْبٌ و حُزْبٌ۔ سخت امر۔ کہتے ہیں۔ ”نَزَلْتُ بِہِ حَوَازِبِ الْمَخْطُوبِ“ اس پر سخت مصیبتیں گریں۔ وَهَذَا امْرُؤٌ حَزِیْبٌ۔ یہ دشوار امر ہے۔ الحِزْبُ۔ گروہ۔ پارٹی۔ جتنا۔ ہتھیار انسان کی فوج اور اس کے ہم خیال ساتھی۔ حصہ۔ ورد۔ وظیفہ ج۔ اَحْزَابٌ۔ اَحْزَابٌ۔ ایسے لوگ جن کے دل اور اعمال مشابہت رکھتے ہوں۔ اگرچہ وہ آپس میں نہ ملیں۔ الحَزَّاءِیُّ وَاَلْحَزَّاءِیَّةُ۔ من الرجال گٹھلے بدن والا۔ پست قد آدمی۔ الحَزْبُؤُنَ وَاَلْحِزْبُؤُسَ۔ بڑھیا۔ حَزَّوْا دَنْ (مَنْ) حَزَّوْا وَاَحْزَسَہٗ۔ نے اشیاء۔ اندازہ کرنا۔ تخمینہ لگانا کہتے ہیں۔ حَزَّوْا قَدْ دَمَلِہٖ یَوْمَ کَذَا۔ اس نے اپنے آنے کا فلاں دن اندازہ کیا۔ (وَحَزَّوْا) دَنْ، حَزَّوْا وَاَحْزَسَہٗ۔ النِّیْنُؤُا وَاَللِّبْنُؤُا۔ نبین۔ یاد دہندہ کا ترش ہونا۔ صفت حَزَّوْا الحَزَّوْا ج۔ حَزَّوْا وَاَحْزَسَہٗ۔ مَنْ کُلِّ شَیْءٍ۔ ہر چیز کا عمدہ حصہ۔ الحَازِیَّةُ۔ حَازَرُ کَا مَوْثُ بِمَضْبُوطِ اَوَّلِیِّ الحَزَّوْا وَاَلْحَزَّوْا۔ طاقت ور لڑکا۔ ج۔ حَزَّوْا وَاَحْزَسَہٗ۔ الحَزَّوْا۔ چیتان۔ مہمہ۔ پہیلی۔ یہ عوام کا لغت ہے۔ اس کے لیے فصیح لفظ اَلْحَاجِیَّةُ ہے۔ المَحْزُؤِسَ۔ غضب ناک۔ حَزْبُؤَانِ۔ ماہ جون۔ شمسی سال کا چٹا مہینہ۔



حَزَفُوْ - القومُ للقوم - لڑائی کے لیے تیار ہونا - حَزَفَرُ الاناء - برتن بھرنے - المتاع - سامان کس کر باندھنا - حَزَقَ (من) حَزَقًا - الوتر أو الرويطة - نانت یا رسی کو کس کر باندھنا - الشئ - دبا کر پھوڑنا - حَزَقَ الحصارُ - گدھے کا گوز کرنا - أَحْزَقَ - روکن - منع کرنا - تَحْزِقُ - سکرنا - جمع کرنا - الْحَزَقُ وَالْحِزْقَةُ وَالْحَازِقَةُ وَالْحَزَاقَةُ - آدمیوں وغیرہ کی جماعت - حَزِيقَةُ کی جمع حَزَائِقُ وَ حَزِيقٌ وَ حَزَقٌ - الْحِزْقَةُ - ہر شے کا ٹکڑا - الْحَاذِقَةُ - بچکی - عامی کلمہ ہے - اس کے لیے فیصح لفظ الغواق ہے - الْحَزَقُ وَالْحُزْقُ وَالْحُزْقَةُ - وَالْحَزَقَةُ - والا حُزْقَةُ - پست قد جو چھوٹے چھوٹے قدم سے چلے - (- والمتحزق، بدخلق کنجوس - الْمُحْزَوَق - تنگ مز کا لڑنا - مراحمی وغیرہ حَزَكَه (من) حَزُوكًا - لپٹنا اور دبانا - ۸۰ بال حبیل - کٹھابنا کر رسی سے باندھنا - احْتَزَكَ - بالثوب - کپڑے سے مکر کرنا - احْزَأَل - الشئ - اکٹھا ہونا - القلب - ڈر کی وجہ سے دل کا سکرنا - الجبل - پہاڑ کا سراب سے اونچا ہونا -

— البعيرُ في السير - اونٹ کا چلنے میں بلند ہونا - الْحَوْنَلُ وَالْحَوْنَلَةُ - کوتاہ قد حَزَمَه (من) حَزَمًا وَ حَزَمَه - باندھنا - حزم الفرس - گھوڑے پر تنگ کرنا - حَزَمَ (س) حَزَمًا - سینہ میں کسی چیز کا پھنس جانا - حَزَمَ دك، حَزَمًا وَ حَزَامَةً - کپے ارادہ والا اور مستقل مزاج ہونا - صفت (حازم) - حَزَمَه وَ حَزَمٌ وَ حَزَامٌ وَ حَزِيمٌ - حَزَمَاء - آخِزَم - الفرس - گھوڑے پر تنگ کرنا یا تنگ بنانا - تَحْزَمُ وَ احْتَزَمَ - رسی وغیرہ سے مکر باندھنا - کتنا - کہتے ہیں - "تحزم في الامر" - اس نے معاملہ میں دانائی اور ہوشیاری سے کام لیا - احْزَمَ - احْزَمًا - الشئ - اکٹھا ہونا - المكان - کسی جگہ کا سخت و بلند ہونا - الحزام - حَزَمٌ وَ الحِزَامَةُ - حَزَامٌ وَ الحِزَامَةُ - جانور کا تنگ - کہتے ہیں "أخذ حِزَامَ الطريق" - اس نے نیچ راستہ کو پکڑا اور اسی پر چلا - الحزم - مص - سخت و بلند زمین - حَزَمٌ - حَزَمٌ - الحزم - خوراک کی دیر مضمی سینہ کی بستکی - الحِزْمَةُ - ٹکڑی وغیرہ کا گٹھا - الحَزِيم - تنگ کسے کی جگہ - کہتے ہیں "شددت لهذا الامر

حَزِيمِي" میں نے اس کام کے لیے مکرسی - سینہ کا وسط - حَزَمٌ وَ احْزَمَةٌ - الاحْزَم - چوڑے سینہ والا - بڑے پیٹ اور موٹی کمر والا - الاحْزَام - پارٹیاں - الحِزْمُ - چھاتی کا درمیان - سخت اور اونچی زمین - حَزَمٌ - حِزَامٌ وَ حِزَامِي - شَدَّ الحِزَامُ - کنا یہ از صبر - المَحْزَم - من الدابة - جانور کی وہ جگہ جہاں تنگ کسا جاتا ہے - حَزَنَهُ (ن) حَزْنًا - آرزوہ خاطر کرنا - غمگین کرنا - حَزَنَ (س) حَزْنًا - له وعليه - رنجیدہ ہونا - غمگین ہونا - صفت (حَزْنٌ) حَزْنًا وَ حِزَانٌ وَ حِزَانِي وَ حِزْنٌ وَ حِزْنٌ وَ مَحْزُونٌ وَ مُحْزَنٌ وَ مُحْزَنٌ وَ حِزْنَانٌ - حَزْنٌ (ن) حَزْنَةً - المكان - سخت ہونا - احْزَنَ - سخت زمین پر چلنا - (- وَ حِزْنٌ - الرجل - کو غمگین کرنا - حَزْنٌ القاسی - قاری کا باریک آواز سے پڑھنا - تَحْزِنُ وَ تَحْزَنُ وَ احْتَزَنَ - غمگین و رنجیدہ ہونا - تَحْزَنُ عليه وَ لامرہ - کسی پر دروند ہونا - الحُزْنُ وَ الحِزْنُ - غم - رنج - حَزَنٌ - احْزَانٌ - الحِزْنُ - سخت و اونچی زمین - حَزْنٌ وَ حِزْنٌ -

حَرَکَتِ مَقْتُولِ۔
حَسَّاسُ۔ الحُصْبَى۔ بخار کے شروع ہونے کا احساس۔
الحِصْبَى۔ حس ظاہری سے ادراک کی ہوئی شے۔ عقلی کا مخالف۔
الحُصَّاسُ۔ ایک قسم کی چھوٹی ٹمچلی جو خشک کی جاتی ہے۔ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ واحد (حُصَّاسَةٌ) نحوست۔ بد خلقی۔
الحُصُّوسُ۔ سخت سال۔
حساسات۔ ناپسندیدہ یا شرمندگی کی چیزوں کی وجہ سے القبا منی کیفیت کا احساس و شعور۔
المُحْصُوسُ۔ حس ظاہری سے دریافت کیا ہوا۔ نامبارک۔ اسی صنف محسوسات۔ ٹڈی یا اولوں سے تباہ شدہ زمین۔
المَحْصَتَہ۔ کھریا۔
حَسْبَہ (ن) حَسْبًا وَحَسَابًا وَحَسْبَانًا وَحَسْبَانًا وَحَسْبَانًا۔
حَسْبَانَا۔ گنا۔ شمار کرنا۔
حَسْبَہ (س ح) حَسْبَانًا وَحَسْبَانًا وَحَسْبَانًا۔ گنا۔ خیال کرنا۔
حَسْب (ک) حَسْبًا وَحَسْبَانًا۔ شریف الاصل ہونا۔ صفت (حَسْبِی) ج۔ حَسْبَاء۔
حَسْبَہ۔ تکمیل دینا۔ المِیَّتَہ۔ کفننا و دفنانا یا پتھروں میں دفن کرنا۔ (د وَا حَسْبَہ) اس قدر کھلانا یا دینا کہ کھانے یا لینے والا کسے کہ بس۔ کہا جاتا ہے۔
"اعطی فَا حَسْبًا" یعنی اس نے بہت دیا۔ خوب دیا۔
حَاسِبَہ مَحَاسِبَہ وَحَسَابًا۔

حَسَّ (س ض) حَسًّا وَحِشًّا۔
بالخبر۔ یقین کرنا۔ لفلاں کسی پر دل دکھانا۔ کسی کے لیے نرم دل ہونا۔
حَسَّتَ۔ معلوم کرنا۔
تَحَسَّسَ۔ سنا۔ دیکھنا۔
الخبر۔ خبر معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ الشیء۔ حواس سے پرہ لگانا۔ تَحَسَّسَ منہ۔ خبر دریافت کرنا۔
انْحَسَّتْ۔ اَسْتَانُہ۔ دانوں کا اکھڑ جانا۔ یا کھر جانا۔
اَحْتَسَّ۔ الشیء۔ چھونا۔
بیخ کنی کرنا۔
الحِصْ۔ مص۔ حرکت۔ ہلکی آواز۔
کہتے ہیں "ما سمعتُ لہ حِشًّا" میں نے اس کی آہستہ آواز نہیں سنی۔ آہستہ۔ بچہ کی ولادت کے بعد کا درد۔ حِشٌّ الحُصْبَى۔
تپ کے شروع کا احساس۔
الحِصْ۔ مص۔ حیلہ۔
الحِصَّةُ وَالْحِصَّةُ۔ حالت۔
کہتے ہیں "ہو فی حِصَّةِ سَوِیِّ" وہ ابتر حال میں ہے۔
الحَاسِیۃ۔ الحَاسِیۃ۔ کا مؤثر۔
دریافت کرنے کی قوت۔ ج۔ حَوَّاس۔
الحواس الخمس۔ ادراک کی پانچ قوتیں (سونگھنا۔ سنا۔ دیکھنا۔ چکھنا۔ چھونا) حواس الارض۔
زمین کی پانچ آفتیں (سردی۔ اولے ٹڈی۔ ہوا۔ مولیٰ شے) کہا جاتا ہے
مَرَّتْ بِالْقَوْمِ حَوَّاسٌ۔ قوم پر سخت سال گذرے۔
الحِصْبِیۃ۔ آہستہ و پست آواز

الْحَوْنَةُ۔ من الارض۔ سخت زمین
الْحَوْنَةُ۔ سخت پہاڑ۔ ج۔ حُزْنُ
الْحَوْنُ۔ مصائب۔
الْحَوَانَةُ۔ پال بچے جن کے اہتمام میں انسان فکر مند رہتا ہے۔
الْحَوْنَةُ۔ زمین کی سختی۔
الْحَوْنُجَل۔ کڑوے ذائقہ کی ایک نبات۔
حَزَان (حَزَوًا وَحَزَنَی (ض)
حَزُونًا وَتَحْزُنَی۔ الشیء۔
کسی چیز کا اندازہ کرنا۔ تخمینہ لگانا۔
الطیر۔ شگون لینے کے لیے پرندہ کو اڑانا۔
حَزَان (حَزَوًا وَحَزَنَی۔ السراب
الشیء۔ نمایاں کرنا۔ ظاہر کرنا۔
اَحْزَنَی۔ اَحْزَاءُ۔ الشیء۔ بلند و نمایاں ہونا۔ بالشیء۔ جانا۔
الحَازِنِی۔ فا۔ قیافہ شناس اور اسی سے یہ قول ہے۔ "علی الحَازِنِی ہبطت"۔ یعنی میں واقف کار اور باخبر کے پاس پہنچا۔
الْحَزَنَی وَالْحَوَّاءُ۔ ایک نبات واحد۔ حَزَاةً۔ وَحَوَّاءَةً۔
حَسَّتَہ (ن) حَسًّا۔ قتل کرنا۔
جڑ سے اکھڑنا۔ جانور کے کھریا کرنا۔ البردُ الزسَعُ سردی کا کہینتی کو مار جانا۔ جلا دینا۔
اللحمہ۔ گوشت کو انگاروں پر بھوننا۔ الناس۔ پختگی کے لیے کباب وغیرہ پر آگ ڈالنا۔
حَسَّ (ض) حَسًّا وَ اَحَسَّ الشیء۔ وبالشیء۔ معلوم کرنا۔ محسوس کرنا۔ کہا جاتا ہے "حَسَّ وَاَحَسَّ منہ خبرًا۔ اس نے اس سے خبر معلوم کی۔

حسابات کی جانچ کرنا۔
تَحَسَّبَ - قناعت کرنا، تکلیف لگانا۔
— الخبر در یافت کرنا۔
— ہ۔ پہچاننا۔ قصد کرنا۔
تَحَاسَبَا - آپس کا حساب صاف کرنا۔
ایک دوسرے کے حساب کی جانچ کرنا۔

اِحْتَسَبَ - الامر۔ گمان کرنا شمار کرنا۔

— ما عند فلان۔ آزمانا۔

اِحْتَسَبَ عَلَيْهِ الامر۔

نا پسندیدہ بات سے روکنا۔ منع کرنا۔

— بہ۔ قناعت کرنا۔

عنه۔ رک جانا۔ دست کش رہنا۔

اِحْتَسَبَ ذَلَالًا لہ۔

بڑی عمر کے بچہ کو کھودینا۔ اگر چھوٹی

عمر کا بچہ ضائع ہو تو کہتے —

”افتراطہ“۔ عند اللہ خیرًا

اللہ تعالیٰ سے ثواب و اجر کی امید لگانا۔ کہتے ہیں ”فلان لا

يُحْتَسِبُ بَلہ۔ فلان ناقابل

اعتبار ہے اور کسی شمار میں نہیں۔

”فلان استعطانی فَاَحْتَسِبُهُ“

یعنی فلاں نے مجھ سے بخشش چاہی

تو میں نے اس کو خوب دیا اور

کافی دیا۔

الحَاسِب - فا۔ حساب دان۔ ج۔ حَسِبَہ۔

الحَسِبَ - مص۔ کافی ہونا۔ کفایت

کرنا۔ کہا جاتا ہے ”حَسْبُكَ

درہم“ تم کو ایک درہم کافی ہے

اور کبھی باء زائد کر کے کہتے ہیں۔

”يَحْسِبُكَ درہم“۔ ”وہذا

رجلٌ حَسْبُكَ من رَجُلٍ“

اور تمہارے لیے یہ آدمی اس آدمی

سے کافی ہے۔ ”زَيْدٌ صَدِيقِي

فَحَسْبِي“ اور فحسب“ زید میرا

دوست ہے اور وہ مجھ کو کافی

اور دوسرے سے بے نیاز کرنے

والا ہے۔

الحَسَبُ - حَسَب - کا مصدر۔ مقدار

تعداد۔ کہا جاتا ہے۔ ”هَذَا

بحسب ذاك“۔ یہ اس کے

برابر ہے۔ ”اعمل على حسب

ما امرتكَ“ میرے حکم کے

مطابق عمل کرو۔ ”وحسبما ذَكَرْتُمْ“

موافق اس کے جس کا ذکر ہوا۔

خاندانی شرافت۔ آباؤ اجداد کے

محاسن و مفاخر۔ ج۔ اَحْسَاب -

الحَسَبُ - شمار کیا ہوا۔

الحِسَاب - مص۔ شمار۔ کافی کہتے ہیں

”اَعْطَاهُ عَطَاءً حِسَابًا - اس

نے اس کو کافی دیا۔ لوگوں کی

بڑی تعداد۔ کہتے ہیں۔ ”آتَانِي

حِصَابٌ مِنَ النَّاسِ“ جس

طرح کہا جاتا ہے۔ ”جَاءَنِي

عَدَدٌ مِنْهُمْ“۔ ”وَيَرْزُقُ اللّٰهُ

مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ“

یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر

کسی کمی یا تنگی کے رزق پہنچاتا ہے۔

حِسَابُ الْجَمَل - حروف ابجد کا

حساب۔

يَوْمُ الْحِسَاب - قیامت کا دن۔

الحِسَابِي - حساب دان۔

الحِسْبَةُ - مص۔ میت کو پتھروں میں

یا کفن دے کر دفن کرنا۔ اجر و

ثواب۔ ج۔ حَسِبَ -

الحَسِيبُ - خاندانی شرافت رکھنے

والا۔ جانچ کنندہ۔ کہتے ہیں۔

”كُفِيَ بِاللّٰهِ حَسِيبًا“ محاسبہ

کے لیے اللہ کافی ہے۔

الحُسْبَان - حساب۔ چھوٹے تیر۔

واحد۔ (حُسْبَانَةٌ)

الحُسْبَانَةُ - کرٹک۔ بدلی۔ اولہ۔

(— وَالْمَحْسَبَةُ) چھوٹا تکلیف۔

مُحْتَسِبٌ - البلد۔ اوزان وغیرہ

کی جانچ پڑتال کرنے پر حاکم کی

طرف سے مقرر کردہ شخص۔ اَلْهَيْكَلُ

حَسْحَسَ - لہ۔ کسی کے لیے

در و مند ہونا۔ دکھ محسوس کرنا۔

— اللَّحْمُ - گوشت کو انگاروں

پر رکھ کر الٹنا۔ پلٹنا۔

تَحَسَّسَ حَسَسَ - للقیام۔ اٹھنے کے لیے

حرکت کرنا — ادباً

الابل۔ اونٹ کے بالوں کا متفرق

و پراگندہ ہونا۔

حَسَدَاتٌ (ن ض) حَسَدًا و

حَسَادَةً و حَسَدَاتٌ —

فلا تَأْنِمْ لَّهٗ وَ عَلٰی نِعْمَتِهِ“

کسی کی نعمت کے زوال اور خود

اپنے لیے اس کے حصول کی تمنا کرنا

یا آرزو رکھنا۔ صفت (حَاسِدٌ)

ج۔ حُسَادٌ و حَسَدَةٌ و حُسْدٌ -

اَحْسَدَہ - کسی کو حاسد پانا۔

تَحَاسَدَا - ایک دوسرے سے

حسد کرنا۔ ایک دوسرے کی زوال

نعمت کا متمنی رہنا۔

الْحَسُودُ - (مذکر مؤنث) وہ شخص جس

کی طبیعت میں حسد ہو۔ ج۔

حُسْد -

الْحَسَادُ - بہت حسد کرنے والا۔

الْمَحْسَدَةُ - حسد کا باعث و سبب

حَسْرَتٌ (ن ض) حَسْرًا - البصر۔

بینائی کا کمزور ہو جانا۔ نگاہ کا تھک

جانا — الشئ۔ ظاہر ہونا۔



کھل جانا — الماء — پانی کا
نیچے اتر جانا اور خشک ہو جانا۔

(حَسْرًا) الرجلُ او
الدابةُ — آدمی یا جانور کا تھک
جانا۔

حَسْرَدَن (ض) حَسْرًا — الشئُ —
کھولنا۔ کہا جاتا ہے۔

”حَسْرَ كَمَدَ عَنْ ذِرَاعِهِ“
یعنی اس نے اپنی آستین پرڑھاٹی

وحَسَرَتِ الجاريةُ خمارها
عن وجهها“ لڑکی نے اپنی

اڑھنی اپنے چہرہ سے ہٹائی۔ صفت
(حَاسِر) ج. حَسْرٌ وَحَاسِرٌ۔

الحَسْرُ — فوج میں وہ پیادے جن کے
چہرے اور سر کھلے ہوں۔ یا ان کے

جسموں پر زہر اور لہروں پر خود نہ
ہوں — الغَضَنُ — ٹہنی

کو چھیننا — البيتُ — مکان
کو بھاڑ دینا — الدابةُ —

جانور کو چلا کر تھکا دینا۔
حَسِرَ (ض) حَسْرًا — تھکانا —

حَسْرًا وَحَسْرَةً (افسوس کرنا
حَسْرَ — الطيرُ — پرندہ کے پر جھڑانا۔

حَسْرَ — افسوس کرانا۔ افسوس
کرنے پر اکسانا۔ تکلیف دینا۔

حقارت کرنا۔
أَحْسَرَ — الدابةُ — جانور کو چلا کر

تھکانا۔
نَحَسْرُ — علیہ۔ کسی پر افسوس

کرنا — الشعورُ والولیشُ —
بالوں یا پروں کا گرنا۔

نَحَسَرَ الطائِرُ — پرندہ کے
پروں کا گرنا۔ تَحَسَّرَتِ المرأةُ

عورت کا چہرہ کھول کر بیٹھنا۔
إِنْحَسَرَ — الشئُ — کھلنا —

— الطيرُ — پرندہ کا پرانے پر گرا
کرنے پر نکالنا۔

إِسْتَحْسَرَ — تھکانا۔
الحَاسِرُ — فَا — وہ جو بغیر زہر یا خود یا

عمامہ کے ہو — وہ عورت جس
نے اپنا چہرہ اڑھنی سے کھول

دیا ہو۔
الحَسِرُ — تھکانے والا۔ افسوس کرنے

والا۔
الحَسِيرُ — تھکا ماندہ۔ کمزور۔ افسوس

کرنے والا۔ تھکانے والا۔ ج۔
حسری۔

الحَسْرَانُ — وہ شخص جس کو اپنی کھوئی
ہوئی چیز پر سخت حسرت و اندامت ہو

التحاسيرُ — مصیبتیں۔ بلائیں۔
واحد — (تَحْسِيرُ)

المَحْسِرُ والمَحْسَرُ — حالت معلومہ
چہرہ۔ کہتے ہیں ”فلان مَلْبَحٌ“

المنظرُ — کریجہ المَحْسَرُ —
فلاں خوبصورت، شریف باطن

ہے۔ طبیعت۔ کہتے ہیں ”ارض
عَارِيَّةُ المحاسيرُ“ نباتات سے

خالی زمین۔
المَحْسَرَةُ — بھاڑو۔

المَحْسُوسُ — البصرُ — تھکی ہوئی نگاہ
والا۔

حَسَفَتِ (ض) حَسْفًا وَحَسِيفًا —
— الحيلةُ — سانپ کا پھنکارنا۔

(حَسَفَ (ض) حَسْفًا) —
— السحابُ — بادل کا چلنا —

— الغلَمُ — بکریوں کا ہانکنا —
— التمرُ — کھجور کو صاف کرنا —

— القرحةُ — زخم کو چھیننا۔
— حَسْفًا وَحَسْفًا، —

الزَّرْعُ — کھیتی کا ٹٹنا۔

حَسِفَتِ (ض) حَسْفًا — له — ناراض
ہونا۔ کینہ رکھنا۔ غنیمت ناک ہونا۔

أَحَسَفَ — انْتَمَرُ — صاف عمدہ
کھجوروں کو غیر صاف ردی کھجوروں

کے ساتھ ملانا۔
حَسَفَتِ — التمرُ — ردی کھجوروں سے

صاف کرنا۔
تَحَسَفَ — الجلدُ — جلد کا چھلنا۔

— اوبارُ الابلِ — اونٹ کے
بالوں کا جھڑ جانا۔

إِنْحَسَفَ — الشئُ — فی بیدی۔ ریزہ
ریزہ ہونا۔

الحُسَافُ — ہر چیز کا بقیہ۔ کھائی ہوئی
چیز کا کچھ بچا ہوا حصہ۔

الحُسَافَةُ — ردی کھجوریں یا کھجور کے
چھلکے۔ کہتے ہیں ”فلان لا يعطی

من البُرِّ إِلَّا نَسَافَةً وَمَنْ
التَّمْرِ إِلَّا حُسَافَةً“ فلاں

شخص گہو میں سے محض اس کی
پھٹکن اور کھجوروں میں سے صرف ردی

کھجور دیتا ہے۔ تھوڑا پانی۔
حُسَافَةُ النّاسِ — رذیل لوگ۔

(الحُسَافَةُ والحَسِيفَةُ)
دشمنی۔ غصہ۔ کہتے ہیں ”سَرَّاجَعٌ

بِحَسِيفَةٍ نَفْسُهُ“ وہ بغیر
اپنی حاجت روائی کے واپس ہوا۔

الحَسْفَةُ — پتلا بادل۔
حَسِيكَ (ض) حَسَكًا — علیہ۔

غضب ناک ہونا۔ صفت (حَسِيكَ)
— الدابةُ — جانور کا دانہ چبانا۔

أَحْسَكَ — الدابةُ — جانور کو
دانہ چبانے کے لیے دینا۔

النَّبَاتُ — پودہ کا کلٹے دار ہونا۔
الحَسَكُ — مص — کانٹے دار پودہ

باریک ہڈی۔ گوگھرو مفرد (حَسَكُهُ)

الحَسْبُكَ - جانور کا دانہ۔ سبھی۔
 (د) والحَسْبُكَ والحَسْبُكَ (دشمنی۔ کینہ۔
 الحَسْبُكَ - پست قد۔
 حَسْلٌ (رن) حَسْلٌ - الشَّيْءُ -
 ذیل کرنا۔ الدابة - جانور کو
 تیز کرنا۔
 حَسْلٌ - ذیل کیا جانا۔
 حَسْلٌ - بنفسہ۔ اپنے آپ کو
 ذیل کرنا۔ دانت گوارا کرنا۔
 تَحَسَّلٌ وَاَحْتَسَّلٌ - گروہ کا بچہ
 شکار کرنا۔
 الحِجْلٌ - گروہ کا بچہ۔ ج۔ حَسْلَةٌ -
 وَاَحْسَالٌ وَاَحْسُولٌ و -
 حَسْلَانٌ - کتے ہیں۔ لَا اَتِيكَ
 يَسْتِ الحِجْلٌ - یعنی میں تمہارے
 پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ گروہ کے
 دانت اس کے مرنے تک نہیں
 گرتے اس لیے ان سے ہمیشگی مراد
 لی جاتی ہے۔ يَسْتِ - کا نصب
 نيزع الخافض ہے۔ اور تقدیر
 عبارت یوں ہے۔ مدّة بقاء
 يَسْتِ الحِجْلٌ - ابو حَسْلٌ -
 وَاَبُو حَسْلٍ - گروہ۔
 الحَسَالَةُ - جو وغیرہ کی بھوسی۔ چاندی۔
 چاندی کے ذرات۔ (د) الحَسِيلَةُ
 قوم کے گھٹیا لوگ۔
 الحَسِيلٌ - گائے کے بچے۔ مفرد
 (حَسِيلَةٌ) گھٹیا چیز ج حَسْلٌ -
 المَحْسُولٌ - گھٹیا۔ ردی۔
 حَسْمَةٌ (دمن) حَسْمًا - بڑے
 کاٹنا۔ حَسْمٌ الحِرْقُ -
 رگ کاٹ کر اس کو داغ دینا تاکہ
 خون بہنا بند ہو جائے۔
 - الداء - بیماری کو دوا سے

دور کرنا۔ حَسْمَةُ الشَّيْءِ
 روکنا۔ منع کرنا۔
 الاَحْسَمُ - تجربہ کار۔ فیصلہ کن آدمی۔
 الحُسُومُ - نامبارک۔ منحوس کہتے ہیں۔
 "اَيَّامٌ حُسُومٌ" وَاَيَّامٌ حُسُومٌ
 بصورت وصف امتاعت۔ یعنی
 نامبارک دن۔
 الحَسَاهُ - تیز کاٹنے والی تلوار۔
 - حَسَامٌ السَّيْفِ - تلوار کی
 دھار۔
 الحَسْمَةُ - کاٹنے کا ذریعہ۔ کہا جاتا
 ہے۔ "هَذَا مَحْسَمَةٌ لِلدَّاءِ"
 یہ بیماری کے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔
 حَسْنٌ وَّحَسَنٌ (د) حَسَنًا -
 خوب صورت ہونا۔ صفت (حَسَنٌ)
 ج۔ حَسَانٌ وَاَحْسَانٌ
 ج حَسَانُونٌ وَاَحْسَانٌ و
 حَسِينٌ (مؤنث حَسَنَةٌ و
 حَسَنَاءُ ج۔ حَسَانٌ وَّحَسَنَاتٌ
 اور مبالغہ کے لیے (حَسَنَانٌ)
 مؤنث حَسَنَانَةٌ -
 حَسَنَةٌ - آراستہ کرنا۔ خوبصورت بنانا
 حَسَنَةٌ - مُحَاسَنَةٌ - خوبصورتی
 میں غالب آنا۔ لطف و مہربانی سے
 پیش آنا۔ خوش معاملگی کے ساتھ
 پیش آنا۔ کہا جاتا ہے۔ "رَافِي
 لَأَحْسَنِ يَلِكِ النَّاسُ"
 میں لوگوں پر تمہارے محاسن کی وجہ
 سے فخر کرتا ہوں۔
 أَحْسَنٌ - نیکی کرنا۔ کام کو اچھی طرح
 کرنا۔ الشَّيْءُ - اچھا بنانا۔
 اچھی طرح جانا۔ کہتے ہیں۔ "فَلَانٌ
 يُحَسِّنُ الْقِرَاءَةَ" - فلال
 عمدہ طریقہ سے پڑھتا ہے۔
 الميہ وبلہ - نیک سلوک کرنا۔

نیکی کرنا۔
 تَحَسَّنٌ - خوبصورت ہونا۔ بکذا
 آراستہ ہونا۔ مونڈنا۔ کہتے ہیں۔
 "دَخَلَ الْحَمَامُ فَتَحَسَّنَ" وہ
 حمام میں گیا اور حجامت بنائی۔
 اسْتَحَسَّنَهُ - اچھا جانا۔
 الحُسْنُ - خوبصورتی۔ جمال۔ ج
 مَحَاسِنٌ - (خلاف قیاس)
 المَحَاسِنُ - بدن کی خوبصورت
 جگہیں۔ حَسَنٌ سَاعَةٌ - ایک
 نبات ہے جو غروب سے ایک
 ساعت پہلے کھلتی ہے اور طلوع کے
 بعد مر جھا جاتی ہے۔ گویا ایک سات
 بہار دکھاتی ہے۔ يَسْتِ الحُسْنُ
 ایک قسم کی نبات جو درختوں پر
 لپیڑی رہتی ہے اور خوبصورت پھول
 لاتی ہے۔ الحُسْنُ ایک بڑی
 جو کہنی سے ملتی ہے۔
 الحَسَنُ - مص کہنی کے پاس کی بڑی۔
 بلند ٹیلہ المحَسَنَانُ - سیدنا
 حضرت امام حسن و سیدنا حضرت
 امام حسین رضی اللہ عنہما۔
 الحَسَنَةُ - نیک کام۔ بھلائی۔ نیکی۔
 فائده ج۔ حَسَنَاتٌ -
 الاَحْسَنُ - حَسَنٌ کا اسم تفضیل۔
 ج۔ أَحْسَانٌ - مؤنث حُسْنِي
 اور کبھی شذوذاً۔ اس کی تصغیر
 لاتے ہیں اور کہتے ہیں مَا أَحْسَنُ
 زَيْدٌ - أَحْسَنُ القوم -
 قوم کے خوبصورت یا اچھے آدمی۔
 الحُسْنَى - اچھا کام۔ اچھا انجام۔ خدا
 تعالیٰ کا دھیان۔ کامیابی۔ شہادت
 ج۔ حُسْنِيَّاتٌ وَّحَسَنٌ -
 الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى - اللہ کے صفاتی
 ننانوے نام۔



الْحُسْنَيَانِ - کامیابی - شہادت -
 کہا جاتا ہے۔ "حُسَيْنَاةٌ وَ
 حُسَيْنَاةٌ اَنْ يَفْعَلَ كَذَا"
 وہ زیادہ سے زیادہ اچھا کام جو
 کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کرے
 الْحُسُونُ ایک چھوٹا سا خوش صورت
 خوش آواز پرندہ -
 الْمُحْسَنَانِ - بہت بھلائی کرنے والا -
 الْحَسَّاسِينَ - خوبصورت چیزیں -
 کہا جاتا ہے "مَا أَبْدَعَ تَحَاسُنُ
 الطَّائِدُوسِ وَتَزَايِينُهُ"
 مور کی خوبیاں اور اس کی خوش
 منظری کس قدر بھلی اور عجیب ہے -
 الْمَحْسَنَةُ - حسن کا سبب - کہتے ہیں
 "هَذَا طَعَامٌ مَحْسَنَةٌ لِلْجَسْمِ"
 یہ کھانا جسم کے لیے سبب حسن و
 جمال ہے -
 حَسَانٌ، حَسَوًا وَتَحَسَّى وَ
 اُحْتَسَّى - المرق - شوربا
 تھوڑا تھوڑا پینا - الطَّائِرُ
 الماء - پرندہ کا چونچ سے پانی پینا -
 حَسَّى وَاحْسَى وَحَاسَى -
 الرجل المرق - کسی کو شوربا
 تھوڑا تھوڑا پلانا -
 تَحَاسِيًا - ایک دوسرے کو شوربا
 پلانا -
 الْحَسَوُ - وَالْحَسَا وَالْحَسَاءُ وَالْحَسُو
 ہر پی جانے والی رقیق اور پتی چیز -
 اور اسی سے ہے یوم کحسو
 الطیر - بہت چھوٹا دن - ایک
 قسم کی غذا جو آٹے اور پانی سے
 تیار کرتے ہیں -
 الْحَسُو - بہت گھونٹ گھونٹ کر کے
 پینے والا -
 الْحَسُوَّةُ - حَسَا کا اسم مرہ - ایک

گھونٹ - ج - حَسَوَات -
 الْحَسُوَّةُ - ایک گھونٹ کا اندازہ -
 کہتے ہیں "فِي الْاَنَاءِ حَسُوَّةٌ"
 برتن میں ایک گھونٹ کی مقدار ہے -
 ج - أَحْسِيَهُ وَاحْسُوَّةُ وَ
 جج - أَحَاسٍ -
 الْحَسِيَّةُ - پی جانے والی شے -
 حَسَى (ض) حَسِيًّا وَاحْسَى -
 کھونا -
 الْحَسَى اَوِ الْحَسَى اَوِ الْحَسَى -
 دلدلی زمین - ج - أَحْسَاءُ وَحَسَاءُ -
 حَسَى (س) حَسِيًّا وَاحْسَى -
 آزمانا -
 حَشَّ دُنْ حَشًّا - الْعَشَبُ -
 گھاس کا ٹٹا - النَّاسُ - لکڑی
 سے ہلا کر آگ کو تیز کرنا -
 - الْحَرْبُ - جنگ بھڑکانا
 - الْفَرَسُ - گھوڑے کے
 آگے گھاس ڈالنا - اور اسی سے یہ
 مثل مشہور ہے - "اَحْشَكَ
 وَتَرَوْتَنِي" میں تو تیرے سامنے
 گھاس ڈالتا ہوں اور تو مجھ پر لید
 ڈالتا ہے - یعنی تو نیکی کا بدلہ برائی
 سے دیتا ہے - الْمَالُ -
 بڑھانا - زیادہ کرنا -
 الصَّيْدُ - شکار کو دونوں جانب
 سے گھیر لینا - حَشَّتْ
 الْيَدُ - ہاتھ کا شل ہو جانا -
 الْوَلَدُ فِي بَطْنِ النَّاَقَةِ - اوٹنی
 کے بچہ کا پیٹ میں خشک ہو جانا -
 - الْفَرَسُ - گھوڑے کا تیز
 دوڑنا -
 أَحَشَّ - الْكَلَاءُ - گھاس کے کٹنے کا
 وقت قریب آنا - الْارَضُ
 زمین کا بہت گھاس والی ہونا یا زمین

پر گھاس لگنا -
 أَحَشَّتْ - گھاس کاٹنے میں مدد دینا -
 أَحَشَّتِ الْيَدُ - ہاتھ کا شل ہو کر
 سوکھ جانا - أَحَشَّتِ النَّاَقَةُ
 اَوِ الْمَرْأَةُ - بچہ کا اوٹنی یا عورت
 کے پیٹ میں خشک ہو جانا -
 صفت (مَحْشٍ) - أَحَشَّتْ
 عَنْ حَاجَتِهِ - جلدی کرنا -
 أَحَشَّتْ - الْحَشْبِشُ - گھاس کو
 تلاش کرنا اور جمع کرنا -
 اسْتَحَشَّ - الرَّجُلُ - پیاسا ہونا -
 - الْغَصْنُ - شاخ کا دراز ہونا
 - الْيَدُ - ہاتھ کا شل ہونا -
 - الْعِظْمُ - ہڈی کا باریک و
 پتلی ہونا -
 الْحَشْبِشُ - خشک گھاس - مفسر
 (حَشْبِشَةٌ)
 الْحَشْبَشَةُ وَالْحَشْبَاشُ - بیماریا زخمی
 میں زندگی کا آخری سانس - کہا
 جاتا ہے "حَشْبَاشَاكَ اَنْ تَفْعَلَ
 كَذَا" زیادہ سے زیادہ تم ایسا
 کر سکتے ہو -
 الْحَشَّ وَالْحَشَّ وَالْحَشَّ - بارغ -
 کھجوروں کا جھنڈ - ج - حَشُّوشُ -
 الْحَشْبَاشُ - گھاس کی گون - ہر چیز کا کنارہ
 ج - أَحَشَّةٌ -
 الْحَشْبَاشُ - گھاس کا جمع کرنے والا - یا
 بیچنے والا - بھنگ پینے والا - ج -
 حَشْبَاشُونُ وَحَشْبَاشَةٌ -
 الْاُحْشُوشُ وَالْمَحْشُوشُ - ماں کے پیٹ
 میں خشک بچہ -
 الْمَحْشُ وَالْمَحْشَّةُ - بہت گھاس
 والی جگہ - ج - مَحَاشُ -
 الْمَحْشُ - گھاس کاٹنے کی درانتی -
 (وَالْمَحْشَّةُ) - آگ ہلانے کی



حَشْفًا (ن) حَشْفًا — الناس — آگ
جلانا — كُ بَسْهَد — کسی کے
پیٹ میں تیر مارنا — كُ
بسوط — پیٹ یا پهلوی پر کوڑا
مارنا۔

المَحْشَاء — مٹے کپڑے کی چادر۔ کبل
ج۔ مَحَاشِي —

أَحْشَبَهُ — ناراض کرنا۔ غضبناک کرنا۔
أَحْتَشَبُوا — جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا۔

الْحَوْشَبَةُ — لوگوں کی جماعت۔
حَشَّحَشُوا وَتَحَشَّحَشُوا — اٹھنے
کے لیے حرکت کرنا۔ حَشَّحَشَهُ

الناس — آگ کا جلانا —
تَحَشَّحَشَ الْقَوْمُ — متفرق ہونا

حَشَّدَ (ن ص) حَشَّدًا —
الشيء — جمع کرنا۔ حَشَّدًا

الزَّسْعُ — کھیتی کا پورا آگ آنا۔
— الناقلة — اونٹنی کا تھن

میں دودھ جمع کرنا — الْقَوْمُ
پکار کا جلد جواب دینا۔

حَشَّدَ — الشيء — جمع کرنا۔
أَحْشَدَ وَتَحَشَّدَ وَتَحَاشَّدَ

وَأَحْتَشَّدَ — الْقَوْمُ — ایک غرض
و مقصد کے لیے جمع ہونا۔ کہا جاتا

ہے۔ "أَحْتَشَّدْنَا فِي الصِّيَافَةِ"
اس نے مہمانی میں فراخ دلی سے

کام لیا۔ وَأَحْتَشَّدَ لِفُلَانٍ
فی کذا — اس نے فلاں کے لیے

تیار کیا۔
الْحَشْدُ — مص (ر) — وَالْمَحْشَدُ، جماعت

کہا جاتا ہے۔ "عندی حشد
من الناس" — میرے پاس لوگوں

کی ایک جماعت ہے۔ ج۔
حَشُودٌ —

الْحَاشِدُ — فَا — مستعدی سے اونٹنی

کا دودھ دوہنے والا۔ بہت
دانوں والا کھجور کا کچھا۔ مستعد

تیار۔ کہا جاتا ہے۔ "فُلَانٌ حَافِذٌ
حَاشِدٌ" فلاں اپنی خدمت و

کوشش میں چست و محنتی ہے۔
الْحَشْدُ — وہ شخص جو دوسرے کی مدد

کرنے میں مال صرف کرنے اور
کوشش کرنے سے دریغ نہ کرے۔

ج۔ حُشْدٌ — "عین حُشْدٌ"
پانی نہ ختم ہونے والا چشمہ۔

الْحَشُودُ — وہ اونٹنی جو اپنے تھنوں میں
دودھ جلد جمع کر لے۔

الْمَحْشُودُ — مُطَاع — وہ جس کی خدمت
کرنے کے لیے لوگ چست ہوں۔

الْمَحَاشِدُ — مجلسیں۔
حَشَّرَ (ن ص) حَشْرًا — الناس —

جمع کرنا — ه عَنْ وَطْنِهِ —
جلا وطن کرنا۔ حَشَّرَ الْجَمْعَ —

ایک جگہ سے دوسری جگہ نکالنا۔
— الْعَوْدَ — لکڑی کو چھیل کر

پتی کرنا۔ السَّنَةُ الشَّدِيدَةُ
المَالِ — خشک سال کا مولیشی کو

تباہ کر دینا۔ ہلاک کر دینا۔
حَشَّرَ وَاحْتَشَّرَ — فِي رَأْسِهِ —

بڑے سرو والا ہونا۔ اسی طرح
حَشَّرَ فِي بَطْنِهِ — بڑے پیٹ

والا ہونا۔ اور دیگر اعضائے بدن کے
لیے بھی اس کا استعمال اسی طرح ہے

حُشَوَاتُ الْوُحُوشِ — وحشیوں کا مرزا۔
ہلاک ہونا۔

الْحَشْرُ — مَن — مِنَ الْإِذَانِ
باریک کان۔ کہتے ہیں اذن حشر

و اذنان حشر و اذان حشر
گویا حشر کا استعمال تشبیہ و جمع

میں بھی واحد ہی کی شکل میں ہے۔

کیونکہ یہ دراصل مصدر ہے۔
الْحَشْرُ — مِنَ الْأَسِنَّةِ — باریک نیزہ

ج۔ حُشْرٌ — يَوْمَ الْحَشْرِ —
قیامت کا دن۔

الْحَشَارَةُ — معمولی درجہ کے لوگ۔
الْحَاشِرُ — فَالَجَ حَاشِرُونَ وَحَشَّاسٌ —

الْحَشْرَةُ — دانہ سے لگا ہوا پھلکا۔
ج۔ حَشْرٌ —

الْحَشْرَةُ — ج۔ حَشْرَاتٌ — کپڑے کوڑے
یا چھوٹے چھوٹے جانور۔

الْحَشُوسُ — بڑے پیٹ والا۔ پھولے
ہوئے پهلویں والا۔ پاکیزہ ساخت

والا۔ کہتے ہیں۔ "فَرَسٌ حَشُوسٌ"
یعنی اچھی ساخت کا گھوڑا۔

الْمَحْشَرُ وَالْمَحْشِيرُ — لوگوں کے جمع
ہونے کی جگہ۔

حَشَّرَ ج۔ حَشْرَجَةً — جان کنی کے
وقت سانس کا غرغرانا۔ گھنگھرو

کا بولنا۔
الْحَشْرَجُ — آبخورہ جس میں پانی ٹھنڈا

کیا جاتا ہے۔ پہاڑ کا گڑھا جس
میں صاف مقطر پانی بھرا ہو۔

حَشَفَ (ن ص) حَشْفًا — الضَّرْعُ —
پستان کا دودھ سے خشک ہو

جانا۔
أَحْشَفَتِ — النخلة — کھجور کا

خراب وردی پھل لانا۔
— ضَرْعُ النَّاقَةِ — اونٹنی کے

تھنوں کا سکڑنا۔ سٹنا۔
حَشَفَ — عَيْنُهُ — آنکھیں چنڈھیا

کر دیکھنا۔
تَحَشَفَ — پُرانا بوسیدہ کپڑا پہننا۔

لَسْتُ حَشَفَتِ — أُذُنُ الْإِنْسَانِ —
کانوں کا خشک ہو کر سٹ جانا۔

— ضَرْعُ الْاُنْثَى — پستان کا



سکڑنا۔ سٹپنا۔

الحَشَكُ رومی کھجور۔ کتے ہیں۔

”احشَقًا وسوء کیلہ“ یعنی

ایک تو کھجور رومی اور ناپ بھی

کم۔ یہ جملہ بطور منرب المثل اس

وقت بولا جاتا ہے جبکہ کسی میں

دو بری عادتیں بیک وقت جمع

ہوں۔ خشک پستان۔

الحَشَفَةُ کھیت کٹنے کے بعد کھیتی کے

بچے ہوئے دھانسے۔ خشک خمیر۔

سمندر میں چھوٹا سا گول جزیرہ جس

پر پانی نہ چڑھ سکے۔

حَشَك (ض) حَشَكًا وحَشُوکًا۔

— الضرعُ حقن کا دودھ سے

بھر جانا۔ السحابة۔ بادل کا

بہت پانی والا ہونا۔

النخلۃ۔ کھجور کا بہت پھل لانا۔

صفت (حاشیک) —

الوادی۔ پانی کو باہر پھینک دینا

— القوم۔ جمع ہونا۔ الریح

ہوا کا مختلف جہات سے چلنا۔

— الناقة لبنہا۔ اونٹنی کا

دودھ اپنے حقن میں جمع کرنا۔

صفت (حَشُوک) —

الناقة۔ اونٹنی کا دودھ دوہنا

بند کر دینا۔ اور اس کے حقنوں کا

دودھ سے بھر جانا۔ صفت مفعولی۔

(محشوک) —

حَشَك (ض) حَشَكًا۔ الدابة

جانور کا جو وغیرہ چبانا۔

حَشَك اللبن فی الضرع

حقن میں دودھ کا جلد جمع ہونا۔

احشَلک۔ الدابة۔ جانور کو جو

وغیرہ کھلانا۔

سے بھر جانا۔

الحَشَكَة۔ بارش کی بوچھار۔

الحَشَكَة۔ جماعت۔ کتے ہیں۔

”جادواہ حَشَكَتِہم“ یعنی وہ

اپنی جماعت کے ساتھ آئے۔

الحَشِيكَة۔ جس چیز کو جانور کھائے۔

مثلاً جو وغیرہ۔

الرياح الحَواشيك۔ مختلف جہت

سے چلنے والی ہوائیں۔ واحد

(حاشیک)۔

الحشاکہ والحشاک۔ وہ کڑی جو

جانور کے بچہ کے منہ پر باندھی جاتی

ہے تاکہ وہ دودھ نہ پی سکے۔

حَشَل (ض) حَشَلًا۔ الشیء۔

حقیر جانا۔ ذلیل کرنا۔

الحشَل۔ ذلیل و حقیر شے۔

حَشَم (ض) حَشَمًا۔ ناپسندیدہ

بات سن کر کسی کو غضبناک کرنا اور

دکھ پہنچانا۔ شرمندہ کرنا۔

الشیء۔ طلب کرنا۔ کہا جاتا

ہے۔ ”ما حشمت الصید“ اس

نے شکار نہیں پایا۔ ”وما حشمت

من طعامنا“ اس نے ہمارا

کھانا نہیں کھایا۔

حَشَم (ض) حَشُمًا۔ تھکنا۔ لاغری

کے بعد موٹا ہونا۔ منہ۔

منقبض ہونا۔

حَشَم (ض) حَشَمًا۔ غضبناک ہونا۔

— حَشَمًا۔ غضبناک کرنا

حَشَمَہ وَاَحَشَمَہ۔ ناراض کرنا۔

غضبناک کرنا۔ شرمندہ کرنا۔

وحَشَمَہ۔ اذیت پہنچانا۔

حاشَمَہ۔ غضبناک کرنا۔ برا لکھنا

کرنا۔

حَشَمَہ۔ من فلان۔ کسی سے شرم

وحیا کرنا۔ مذمت سے بچنا۔

احشَم۔ منہ و عنہ۔ غضبناک ہونا

منقبض ہونا۔ شرم کرنا۔

حَشَم۔ الرجل۔ آدمی کے نوکر

چاکر۔ انسان کے وہ قرابت دار

اور غلام یا پڑوسی جو اس کی خاطر

دوسروں پر غضب ناک ہوں۔ یا وہ

ان کی خاطر دوسروں پر خوشگین ہو۔

اہل و عیال۔ قرابت۔ جر۔

احشَمَہ۔ شرم و حیا۔ انقباض۔

عینظ و غضب۔

الحشَمَہ۔ عورت۔ قرابت۔ ذمہ داری

الحشِیہ۔ ذی عزت۔ پڑوسی۔ مہمان۔

جر۔ حَشَمًا۔

حَشَن (ض) حَشَنًا۔ السقاء۔

مشک میں زیادہ دودھ رکھنے اور

اس کو بار بار نہ دھونے سے اس کا

بدبودار ہو جانا۔

احشَن۔ السقاء۔ بدبودار کرنا۔

حاشَنہ۔ آپس میں کالم گلوچ کرنا۔

تحشَن۔ میلا ہونا۔

الحشَن۔ مص۔ دودھ کی چکنائی کی وجہ

سے میل کچیل۔

الحشَنۃ۔ کینہ۔

حشَاد (ض) حَشَوًا۔ الوسادة

بالقطن۔ تکیہ میں روئی بھرنا۔

— الرجل۔ کسی کے حشاکو صدمہ

پہنچانا۔

حاشاہ۔ تھوڑی چیز دینا۔

احشَشی۔ احتشَاء۔ بھر جانا۔

کما جاتا ہے۔ احتشت الرمانۃ

بالحب۔ انار دانوں سے پر ہو گیا

”واحتشئی من الطعام“ وہ کھانے

سے سیر ہو گیا۔ احتشت المداۃ



الْحَشِيَّةُ وَجَهًا - عورت کا

الْحَاشِيَّةُ - مِنَ النَّاسِ وَالْأَبْلِ - چھوٹے جن میں بڑے نہ ہوں۔

الْحَشَا - جو کچھ پسلیوں کے اندر ہے۔

پیٹ کی اندرونی چیزیں۔ ج

أَحْشَاءُ - کہا جاتا ہے۔ "أَنَا

فِي حَشَا فَلَانٍ" میں فلاں کی

پناہ میں ہوں۔ "فَلَانٌ خَيْرُهُمْ

حَشَاً - ان میں سے فلاں بلحاظ

حفاظت بہتر ہے۔

الْحَشْوُ - چھوٹے لوگ یا اونٹ۔ کلام

کا زائد حصہ۔ رذیل لوگ۔ جس

سے کوئی چیز بھری جائے۔ مسالہ جو

بکری کے بچے کے پیٹ میں بھرا جائے۔

ج۔ الحاشی۔

الْحِشْوَةُ وَالْحِشْوَةُ - مِنَ الْبَطْنِ

انٹریاں۔ رومی چیز۔ کہا جاتا ہے۔

"هُوَ مِنْ حِشْوَةِ بَنِي فَلَانٍ"

وہ بنو فلاں کے رذیل لوگوں میں

شمار ہوتا ہے۔

الْحِشِيَّةُ - بھرا ہوا بستر۔ گدی کپڑا جو

عورتیں سرین پر باندھتی ہیں۔ تاکہ

قدرے موٹی نظر آئیں۔ ج۔ حَشَايَا

الْحَشْوَى - فضول کلام کرنے والا۔ بکواسی

المَحْشَى - پیٹ میں کھانے کی جگہ۔

الْمَحْشَاةُ - مِنَ الْبَطْنِ - مقدار

مستقیم

حَشِي (س) حَشَى - الرَّجُلُ - ضيق

النفس کی بیماری میں مبتلا ہونا۔

السَّقَاءُ - مشک کے اندرونی

حصہ میں دودھ کی تہہ (دیا کیٹ) ،

جم جانا۔

حَشَى - الثَّوْبُ - کپڑے کا حاشیہ

بنانا۔ کپڑے پر گوٹ لگانا۔

الْيَتَابُ - کتاب پر حاشیہ لکھنا۔

صفت فاعلی (مُحَشِّشٌ) - وصفت

مفعولی (مُحَشَّشٌ) -

حَاشَى مُحَاشَاةً - زیداً من

الْقَوْمِ - استثناء کرنا۔ خارج کرنا۔

تَحَشَّى - فُلَانًا - استثناء کرنا

تَحَشَّى مِنَ الشَّيْءِ وَتَحَاشَى

عَنِ الشَّيْءِ - بَیِّنًا - دور رہنا۔

وَتَحَشَّى فُلَانٌ - فَمَتَّ سَے بَیِّنًا -

الْحَشَى - مَرَضٌ ضَيِّقُ النَّفْسِ - پیٹ

کے اندر کی چیزیں۔ مثلاً ادھڑی

تلی جگر وغیرہ۔ ج۔ أَحْشَاءُ -

حَاشَا - یہ کلمہ استثناء ہے۔ یہ

مشتثنیٰ کو مشتثنیٰ منہ سے بلحاظ

معنی تنزیہ خارج کرنا اور نکالنا

ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ "صَرَبْتُ

الْقَوْمَ حَاشَا زَيْدًا" سوائے

زید کے میں نے قوم کو مارا۔ چنانچہ

صَلَّى النَّاسُ حَاشَا زَيْدًا"

کہنا ٹھیک نہیں کیونکہ اس میں تنزیہ

کے معنی نہیں بنتے۔

الْحَاشِيَّةُ - کپڑے یا کتاب وغیرہ کی

جانب۔ کنارہ۔ اہل وعیال اور

خاص اپنے لوگ۔ حاشیہ کتاب

ج۔ حَوَاشٍ - کہتے ہیں۔ "رَجُلٌ

رَفِيقُ الْحَوَاشِي" پاکیزہ صحبت

والا آدمی۔ "وَكَلَامُ رَفِيقِ الْحَوَاشِي"

نرم کلام۔

الْحَشِي - مَوْنٌ - حَشِيَّةٌ - و

(الْحَشِيَّانِ) مَوْنٌ حَشِيَّاءُ

ضيق النفس کی بیماری کا بیمار۔

حَصَّ (دَن) حَصًّا - الشَّعْرُ -

بال مونڈنا۔ الْجِلْدُ الْبَنَتُ

پالے کا نبات کو جلا دینا۔ حَصَّى

مِنَ الْمَالِ كَذَا - مال میں سے

حصہ مقرر کرنا۔ الشَّيْءُ -

گھٹانا۔ کاٹ لینا۔

حَصَّ (دَن) حَصًّا - سِرَّكَ بَالُ غُرْنَا

یالم ہونا۔ صفت۔ (أَحْصَ)

حَصَّصَ - الْأَمْرُ - ظاہر ہونا۔

أَحْصَلَهُ - حصہ دینا۔ اِحصاء المکان

کسی جگہ اتارنا۔

حَاصٌ - مُخَاصَّةٌ - الْغُومَاءُ - حصے

تقسیم کر لینا۔ بانٹ لینا۔

تَحَاصَّ - الْقَوْمُ الشَّيْءُ - آپس میں

کچھ بانٹ لینا۔ آپس میں تقسیم کر

لینا۔

رَئِصٌ - الشَّعْرُ - بال گرنا۔ جھڑنا

- اللَّحِيَّةُ - داڑھی کے بالوں کا

ٹوٹا ہوا ہونا۔ الذَّنْبُ - دم

کاٹ جانا۔

الْحَصَصُ - سِرَّكَ بَالِو کی کمی۔ سِرَّكَ

بالوں کا چھوٹا ہونا۔

الْحَصَّةُ حصہ۔ ج۔ حَصَصَ -

الْحَصَّ - زَعْفَرَانٌ مَوْتٌ - ج۔

حُصُوصٌ - وَاخْصَاصٌ -

الْحَصَاصُ - دوڑنے کی تیزی۔ کھلی۔ گوز۔

الْحَصَاصَةُ - انگوچن لینے کے بعد بیل

میں جو کچھ بچ رہے۔

الْحَاصَّةُ - سِرَّكَ بَالِو دینے والی

بیماری۔

الْأَحْصُ - وہ شخص جس کے سر پر بال

کم ہوں۔ وہ شخص جس کے سینہ میں

بال نہ ہوں۔ مِنَ الطِّيَوسِ

وہ پرندہ جس کے بازو کے پر گر گئے

ہوں۔ مَوْنٌ - حَصَّاءُ -

يَوْمٌ أَحْصَ - بغیر ابر کے سخت سرد دن۔

سَيِّفٌ أَحْصَ - جو سر نہ رکھنے والی تلوار

سنہ حَصَّاءُ - وہ خشک سال

جس میں روئیدگی نہ پیدا ہو۔

<p>رسی بٹنا۔ استَحْصَد - القوم۔ لوگوں کا جھٹکا بٹنا۔ الزرع۔ کاشت کے کٹنے کا وقت قریب آپہنچنا۔ الحبل۔ مضبوط بٹی ہوئی ہونا۔ الرجل۔ غضبناک ہونا۔ الحصاد۔ فصل کاٹنے والا۔ الحصاد والحصاد۔ مص فعل کاٹنے کا موسم۔ الحصاد۔ کٹی ہوئی فصل۔ حصاد الشجرة۔ درخت کا پھل۔ کتے ہیں۔ "اخذوا حصاد الشجرة" انھوں نے درخت کا پھل لیا۔ حصاد۔ البقول البرية۔ وہ دانے جو حرکت کرنے سے جھڑ جائیں۔ الحصد والحصيد والحصيدۃ۔ کاشت کا کٹا ہوا حصہ۔ الحصيدۃ۔ فصل کی جڑیں جو کاٹنے پر درانتی سے نیچے رہ جاتی ہیں۔ کھیتی۔ ج۔ حصاد۔ وحصائد اللسان۔ وہ باتیں جو دوسروں کے بارہ میں کہی جائیں۔ الحصد۔ مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ کھڑے ہی کھڑے سوکھ جانے والا درخت۔ مؤنث۔ حصداء درع حصداء۔ تنگ حلقوں والی مضبوط زرہ۔ شجرة حصداء۔ بہت پتوں والا درخت۔ الحصد۔ درانتی۔ حصرة (ن ص) حصر۔ تنگی کرنا۔ گھیر لینا۔ الشیء۔ سارے لینا۔ القوم یفلان۔ تنگی ڈالنا۔ البعید۔ اونٹ کی</p>	<p>الحصباء۔ کنکر مفرد۔ (حصبة) الحاصب۔ فا۔ کنکریوں کو اڑانے والی تیز ہوا۔ اولہ۔ اولہ برسانے والا بادل۔ ج۔ حواصب۔ المحصبة۔ بہت کنکریوں والی زمین۔ حصحص۔ حصحصۃ۔ حق کا بعد پوشیدگی کے ظاہر ہونا۔ الرجل۔ بڑی والے قیدی کی طرح چلنا۔ الشیء فی الشیء۔ کسی چیز کو کسی میں مضبوطی سے بٹھانے کے لیے حرکت دینا۔ بلانا۔ التواب۔ دائیں بائیں بلانا۔ تحصحص۔ زمین سے چٹھنا یا برابر ہونا۔ الحصحصاص والحصحص۔ مٹی۔ والحصحص۔ پتھر رجل (حصحص وحصحص) امور کی باریکیوں کی ٹٹول کر کے ان کی معلومات ہم پہنچانے والا۔ حصد (ن ص) حصد وحصدا وحصادا واحصدا۔ الزرع۔ کھیتی کو درانتی سے کاٹنا۔ اور یہ قول اسی سے ہے۔ "من زرع الشتر حصد النہ امۃ" جس نے برائی بولی اس نے ندامت کاٹی۔ صفت (حاصد) ج۔ حصدة۔ وحصاد۔ القوم بالسیف تلواریں سے قتل کرنا۔ حصد (س) حصدۃ۔ الحبل رسی کا مضبوط بٹی ہوئی ہونا۔ الدرع۔ زرہ کا مضبوط بناوٹ والی ہونا۔ احصد۔ الزرع۔ کھیتی کی کٹائی کا وقت قریب آنا۔ الحبل۔</p>	<p>الحصيص۔ تعداد۔ گدھے یا اونٹ کے گرے ہوئے بال۔ الحصيصۃ۔ مؤنث کر یا اکھڑ کر جمع کیے ہوئے بال۔ حصاء۔ وحصوع (س) حصاً۔ الرضیع۔ شیر خوار بچہ کا خوب پیٹ بھر کر دودھ پینا۔ من الماء۔ پانی سے سیراب ہونا۔ حصبه (ن ص) کنکری سے مارنا (و حصب المكان) کسی جگہ کنکر بچھانا اور اس سے فرش تیار کرنا۔ حصب فی الاسمن۔ جانا۔ عندہ۔ کسی سے بھاگنے میں تیزی کرنا۔ حصبه عن کذا۔ دور کرنا۔ حصب (س) حصباً وحصب خسرہ کے مرض میں مبتلا ہونا۔ صفت (محصوب) حصب الوند۔ تانت کا کمان سے الٹ جانا۔ احصب۔ الفرس فی عدوہ۔ گھوڑے کا دوڑنے میں کنکر اڑانا۔ عندہ۔ منہ پھیر کر چلا جانا۔ ہ عن کذا۔ دور کرنا۔ تحصب۔ الحمام۔ کبوتر کا صحرا کی طرف دانہ کی تلاش میں نکلنا و اڑنا۔ تھا صبو۔ ایک دوسرے پر کنکر پھینکنا۔ الحصب۔ پتھر۔ چھوٹی پتھریاں کنکریاں ایندھن۔ الحصبة والحصبة والحصبة۔ خسرہ۔ الحصبة۔ کنکریوں کو اڑانے والی تند ہوا۔ "اس من حصبة" بہت کنکریوں والی زمین</p>
---	---	---



پیٹ پر گدلا باندھنا۔

حَصِرَ - قبض ہونا۔

حَصَرَ (س) حَصْرًا - بخیل ہونا۔
گفت گو کرنے میں رکنا۔

بالسِرَ - بھید چھپانا۔

الرجلُ - کسی کا دل پر دباؤ

محسوس کرنا۔ عن

الشیء - شرم کر کے کسی چیز کو چھوڑ

دینا۔ صفت۔ (حَصَرَ وَحْشُوس

وَحْصِيرَ)

حَاصِرًا وَحَاصِرَةً -

الْعَدُوَّ - دشمن کو گھیر لینا۔ گھیرا

ڈال کر مکھ کو بند کر دینا۔

أَحْصَرَهُ - عن السفیر - سفر سے روکنا

۵ - المرضیٰ أو البول - مرض یا

پیشاب کا کسی کو روک دینا۔

أَحْصَرَ - قبض ہونا۔

إِنْ حَصَرَ - تنگ ہونا۔ مشکل میں ہونا

محصور ہونا۔

احتصر - البعیر - اونٹ پر گدلا

باندھنا۔

الْحِصَارَ - تکیہ کے مانند چیز جس کو

اونٹ کی پیٹھ پر ڈال کر اس پر سواری

لیتے ہیں۔ وہ گدلا جو زین کی جگہ

استعمال ہوتا ہے۔

الْحَصْرُ وَالْحَصْرَ - قبض۔

الْحَصِيرَ - بویا۔ چٹائی۔ انسانوں کی

قطار مجلس۔ پہلو کہا جاتا ہے۔

”ذَابَتْ عَرِيضَةُ الْحَصِيرِ“ -

چوڑے پہلوؤں والا جاناور۔

شانے سے کمر تک کا گوشت۔

تنگ جگہ۔ قید خانہ۔ قیدی۔ راستہ۔

وہ بادشاہ جو لوگوں کی نگاہوں سے

اوجھل رہے۔ اور اسی سے ہے۔

”أَثَرُ حَصِيرِ الْحَصِيرِ فِي

حَصِيرِ الْحَصِيرِ“ یعنی قید خانہ

کی چٹائی نے بادشاہ کے پہلو میں

نشان ڈال دیا۔ ج۔ حَصْرَ - و

أَحْصَرَهُ -

الْحَصِيرَةَ - بویا۔ چٹائی۔ گھوڑے

کے موٹے اور پہلو تک کا گوشت۔

ج۔ حَصَارَ -

الْمُحْصَرَةَ - للجمال۔ گدلا۔

الْمُحْصَرِ - شیر۔

حَصْرَمَ - الْقَوَسَ - کمان کا سخت

مضبوطی سے کنا۔ الْحَبْلَ -

رسی کو مضبوط بننا۔ الْقِرْبَةَ -

مشک کو بھرنے۔ الْقِلْمَ -

قلم کو تراشنا۔ تَحْصَرَمَ

بخیل اور تنگ دل ہونا۔

الْحَصِيرَمَ - کچے انگور یا کچی پھل۔ واحد

(الْحَصِيرَمَةُ) سخت بخیل۔ پست

قد۔ ہر چیز کا گھٹیا۔

حَصَفَ (دك) حَصَافَةً - عمدہ

راٹے اور پختہ سمجھ والا ہونا۔ صفت

(حَصِفَ وَحَصِيفَ)

حَصِفَ (س) حَصَفًا - کسی کو خشک

کھجلی کا لگنا۔

حَصَفَهُ (ن) حَصَفًا - دور کرنا۔

أَحْصَفَ - تیز دوڑنا۔ صفت

(مُحْصِفٌ وَمِحْصَفٌ وَ

مِحْصَافٌ)

أَحْصَفَهُ - دور کرنا۔ الامر

مضبوطی و پختگی سے کرنا۔

النسبَ - مضبوط بننا۔

إِسْتَحْصَفَ - الشیء - مضبوط

ہونا۔ القوم - لوگوں کا

جمع ہونا۔ الدهر علیہ -

زمانہ کا سخت ہونا۔ الْحَبْلَ -

رسی کو مضبوط بننا۔

الْحَصِيفَ - ہر مضبوط شے جس میں کوئی

خلل نہ ہو۔

حَصَلَ (ن) حُصُولًا وَمَحْصُولًا -

الشیء - حاصل ہونا۔ ثابت ہونا

باقی رہنا۔ کہا جاتا ہے۔ حاصل

علیہ من حقہ کذا۔ اس

پر میرا اتنا حق باقی رہا۔

لہ کذا۔ واقع ہونا۔

عندہ کذا۔ پایا جانا۔

علی الشیء - کسی چیز کو جمع کرنا۔

اور اس کا مالک ہونا۔

لی علیک کذا۔ ثابت ہونا۔

واجب ہونا۔

حَصَلَتْ (س) حَصَلًا - الدابة -

جانور کا مٹی یا کٹری کھانے سے پیٹ

کے درمیں مبتلا ہونا۔

حَصَلَ - الشیء أو العلم -

حاصل کرنا۔ الکلام - تقریر

یا کلام کا خلاصہ کرنا۔ الدین -

قرض جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔

واحصل (النخل) کھجور کا

نیم پختہ پھل والی ہونا۔ واحد

(حَصَلَةٌ)

تَحَصَّلَ - الشیء - اکٹھا ہونا۔

ثابت ہونا۔ من المسئلة

کذا۔ کسی مسئلہ سے دوسرا مسئلہ

نکالا جانا۔

الحاصل - فا۔ صاف چاندی۔

من کل شیء - ہر شے کا بقیہ۔

عند المحاسبین - حاصل ضرب

حاصل تقسیم۔ مَخْزَن -

اور اسی سے ہے حاصل عین

الماء - پانی کی ٹنگی یا حوض۔ ج

حَوَاصِل -

الْحَصَلُ وَالْحَصَالَةُ - کھلیان سے

غله اٹھالینے کے بعد رہ جائیو الے دانے۔
 الحَصِيل - حاصل کیا ہوا مل۔ ایک قسم کی نباتات۔
 الحَصِيلَة - تحصیل کا اسم۔ حاصل کردہ بقیہ۔ کہا جاتا ہے ما حصيلتك وما حاصلک۔ یعنی تمہارا حاصل کیا ہوا کیا ہے۔ ج۔ حَصَائِل۔
 المَحْصُول - حاصل۔ کہا جاتا ہے۔ هذا مَحْصُولُ كَلَامِهِ۔ یہ اس کے کلام کا نتیجہ ہے۔ وما لفلان مَحْصُولٌ وَلَا مَعْقُولٌ۔ یعنی فلان کے لیے کوئی رائے و تہیز نہیں۔ حَصْن (دک) حَصَانَة۔ محفوظ ہونا۔ مضبوط و مستحکم ہونا۔ صفت۔ (حصین)
 حَصْنَت - حُصْنًا وَحَصْنًا وَ حَصَانَة۔ المَرَاة۔ عورت کا پاک و امن ہونا۔ صفت۔ (حَصَان) ج۔ حُصْنٌ وَحَصَانَاتٌ وَ (حَاصِنٌ وَ حَاصِنَة) ج حَوَاصِنٌ وَ حَاصِنَاتٌ وَ (حَصْنَاء)
 حَصْنَه (دک) حَصْنًا۔ مضبوط جگہ میں محفوظ کرنا۔
 حَصْنٌ وَاحِصٌ۔ امکان کسی جگہ کو مضبوط کرنا۔
 أَحَصَن۔ المَرَاة۔ عورت کی شادی کرنا۔ نکاح میں دینا۔ أَحَصَنَت المَرَاة۔ عورت کا شادی شدہ ہونا پاک و امن ہونا۔ صفت (مُحَصَّنَة) بفتح الصاد۔ أَحَصَنَ الرَّجُلُ مرد کا شادی شدہ ہونا۔ صفت (محصن)
 تَحَصَّن۔ اپنے لیے قلعہ بنانا۔

تَحَصَّنَت المَرَاة۔ عورت کا پاک و امن ہونا۔ المَرَاة۔ عورت کا مضبوط جگہ بہتیار ج۔ حُصُونٌ وَ أَحْصَانٌ وَ حَصْنَة۔
 الحَصَان۔ موتی۔
 الحَصَان۔ اصل گھوڑا۔ نر گھوڑا۔ ج۔ أَحْصَنَة وَ حُصْن۔
 الحَصِين۔ من الاماکن مضبوط جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ "دَرْعٌ حَصِينٌ" مضبوط زره۔ وَ حِصْنٌ حَصِينٌ مضبوط قلعہ۔
 ابوالْحَصِين۔ بصورت تصغیر: لومڑی۔ المَحْصَن۔ زنبیل بتالا۔ محل۔
 حَصَا۔ (دک) حَصَوًا۔ گ۔ روکنا منع کرنا۔
 حَصَى (دک) حَصِيًّا۔ الرجل بکفری سے مارنا۔
 حُصِي۔ کسی کے مشانہ میں پتھری پیدا ہو جانا۔ صفت (مَحْصِي)
 حَصِيَّت (دک) حَصَا۔ الارض۔ زمین کا بہت کنکری والا ہونا۔ صفت۔ (مَحْصَاة)
 حَصَاة تحصية۔ بچانا۔
 أَحَصَى۔ الشئ۔ شمار کرنا۔ گنتا۔ سمجھنا۔ قابو میں لانا۔ کہا جاتا ہے۔ "هَذَا امْرَاةٌ أَحْصِيَّةٌ" یہ ایسا امر ہے جس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔
 تَحَصَّى۔ بچنا۔
 الحَصَى۔ کنکریاں۔ پتھریاں۔ واحد (حصاة) ج۔ حَصِيَّاتٌ وَ حُصَيٌّ وَ حِصْيٌ وَ طَرَق الحَصَى۔ کمانت و جادو کے اعمال میں سے

ایک عمل۔ و الحَصَاة۔ عدو عقل رائے۔ کہتے ہیں۔ "فَلَانٌ ثَابِتٌ الحَصَاة"۔ فلان عقلمند ہے۔
 الحَصِي۔ بڑا عقلمند۔ اَرْضٌ حَصِيَّةٌ۔ بہت کنکریوں والی زمین۔
 تَهْرٌ حَصَوِيٌّ۔ بہت کنکریوں والی ندی و نہر۔
 حَصَّه (دک) حَصًّا وَ حَصَّصْه۔ علی الامر۔ کسی کام پر اگسانا۔ ترغیب دینا۔
 تَحَاصُّ۔ القوم۔ ایک دوسرے کو اگسانا۔
 اِخْتَصَّ۔ نَفْسَه۔ خود سے زیادتی کا طالب ہونا۔
 الحَصَصُ۔ چیز (اس لفظ کا استعمال نفی کے بعد ہوتا ہے) کہتے ہیں "مَا عِنْدِي حَصَصٌ وَلَا بَصَصٌ" میرے پاس کچھ نہیں۔ الحَصُّ وَ الحِصْيُضِيُّ وَ الحِصْيُضِيُّ۔ حَصْن کا اسم مصدر۔
 الحُصِّي۔ دامن کوہ میں ملنے والا پتھر۔
 الحَصِيض۔ دامن کوہ۔ ج۔ أَحْصَة وَ حُصْن۔ پست زمین۔ اہل ہیئت کے نزدیک وہ نقطہ جو "اوج" کے مقابل ہے۔
 الحَصِيضَة۔ ملوکہ شے۔ کہتے ہیں۔ "أَخْرَجْتُ إِلَيْهِ حَصِيضَتِي وَ بَصِيضَتِي" جو کچھ میری ملک میں تھا وہ سب میں نے اس کے لیے نکال کر رکھ دیا۔
 الحَصَوُضِي۔ دوری۔ آگ۔
 حَضَب (دک) حَضْبًا وَ أَحْضَبَ۔ الناس۔ آگ میں لکڑی ڈالنا۔
 تَحَضَّب۔ ناہموار اقرب راستہ اختیار کرنا۔



الْحَضْبُ وَالْحَضْبُ. کمان کی آواز۔
دامن کوہ۔ پہاڑ کا پہلو۔ ج۔
احضاب۔

الْحَضْبُ وَالْحَضْبُ۔ لکڑی۔ ایندھن
الْمِحْضَبُ۔ آگ بلانے کی لکڑی۔ کرہ لینی۔
حَضْبُ (حَضْبًا)۔ حَضْبًا۔ الناس۔ آگ
جلانا۔ الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ۔ کسی
شے کو پانی میں ڈوبنا۔ بفلان
پکھاڑنا۔ به الاساض کسی کو
زمین پر پٹک دینا۔

حَضَجَ۔ الکلام۔ کوتاہی کرنا۔
انْحَضَجَ۔ الرجلُ۔ غصہ سے
آگ بگولا ہونا۔
الْحَضَّاجُ۔ جھکی ہوئی پیٹھ اور نکلے ہوئے
پیٹ والا ہونا۔
الْحَضَّاجُ۔ بھری ہوئی بڑی مشک۔
المِحْضَجُ۔ آگ بلانے کی لکڑی۔
المِحْضَّاجُ۔ کپڑے دھونے کی موگری۔
امراةٌ مِحْضَّاجٌ۔ چوڑے پیٹ
والی عورت۔

حَضَرْدَن، حَضْرًا وَحَضَارَةً۔
موجود ہونا۔ حاضر ہونا۔
حَضَارَةً۔ شہر میں رہنا۔
حَضَرْدَن، حَضْرًا، حَضْرًا
المجلس۔ مجلس میں حاضر ہونا۔
عن المكان۔ کسی جگہ سے منتقل
ہونا۔ حَضْرَةُ الامر۔ دل
میں کسی بات کا گزرنہ۔ الموت
موت آجانا۔ الیہ۔ آنا۔
کہا جاتا ہے "حَضْرَتُ الامر"
بخیر۔ یعنی میں نے ایک درست
لاٹے کا خیال کیا۔ وحَضْرَتِ
الصلاة۔ نماز کا وقت آگیا۔
حَضْر۔ موت آجانا۔ صفت۔
(مَحْضُوس)

حَضْرَةٌ وَحَضْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔
کسی کو حاضر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔
"أَحْضَرَهُ الشَّيْءُ" کسی کے پاس
کوئی چیز حاضر کرنا۔ احضر۔

الفرس۔ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔
حَاضِرَةٌ وَمُحَاضِرَةٌ وَحِضَارٌ۔ کسی
کے ساتھ دوڑنا۔ مقابلہ کرنا۔ ثرت
سوچھا ہوا جواب دینا۔

حاضر الجواب۔ حاضر جواب ہونا
تَحَضَّرَ۔ واحتَضَّرَ۔ حاضر ہونا۔
تَحَضَّرَ واحتَضَّرَ۔ الرجل۔ حاضر
کرنا۔ احتضر الفرس۔
گھوڑے کا دوڑنا۔

تَحَضَّرَ البدوی۔ شہری کی طرح بننا۔
تَحَضَّرَ السُّعْدُ۔ غم لاحق ہونا
أَحْضَرَ۔ قریب المرگ ہونا۔
اِسْتَحْضَرَ۔ الشَّيْءُ۔ حاضر ہونا۔ حاضر
چاہنا۔ الفرس۔ گھوڑے
کو دوڑانا۔

الْحَضَرُ وَالْحَضَارَةُ وَالْحَاضِرَةُ۔
شہر۔ آباد مقامات۔ گویا "البلد
والبداوة والباویلة" کا مخالف
کہا جاتا ہے "هَذَا مِنْ كَلَامِ
الحاضرة ولحد اری البوادی
لفظوا به ولا عرفوه" یہ
شہریوں کا کلام ہے۔ اہل بادیاہ نہ
اس کو بولتے ہیں اور نہ اس کو
جانتے ہیں۔

الْحَضَارَةُ وَالْحَضَارَةُ۔ شہری بود و باش
الْحَضَرُ وَالْحَضَارَةُ۔ حاضری۔ موجودگی
پہلو۔ نزدیکی۔ معن۔ حضرت کا لفظ
اس ذی مرتبہ آدمی کے لیے مستعمل
ہوتا ہے جو مرجع غلاق ہو۔ مثلاً
کہتے ہیں "الحضرة العالیة
تأمر بكذا" حضرت عالی الہا

حکم دیتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے
"كَلِمَتُهُ بِحَضْرَةِ فُلَانٍ"
فلاں کی موجودگی میں میں نے اس سے
بات کی۔

الْحَضْرُ۔ تیز دوڑ۔ احضر الفرس
کا اسم۔

الْحَضْرُ وَالْحَضْرُ۔ لوگوں کے کھانے
کے وقت کی تاک میں رہنے والا اور
وقت پر آمو جو ہونے والا۔ طفیلی
آدمی۔

الْحَضْرُ۔ حاضر جواب۔ الْحَضْرُ۔
سفر کا ارادہ نہ رکھنے والا۔ یا
سفر کی استطاعت نہ رکھنے والا۔
الْحَضْرَةُ وَالْحَضْرَةُ۔
پہلو۔ نزدیکی۔ مکان کے سامنے کا
صحن کہتے ہیں "فلان حسن
الحضرة" بھلائی کے ساتھ
حاضر ہونے والا۔ "وجمع
الحضرة" اس نے عمارت کے
بنانے کے ارادہ سے اینٹ، چوہن
وغیرہ جمع کر لیا ہے۔

الْحَضْرِي۔ شہری۔
الحاضر۔ فا۔ شہر کا بسنے والا۔ ج۔
حَضْرٌ وَحَضَارٌ وَحَضْرُوس۔
حَضْرَةُ۔ الحاضر۔ بڑا قبیلہ۔
یہ جمع ہے جس طرح (حاجر، حاجیوں
کے لیے۔

الحَاضِرَةُ۔ الحاضر۔ کامنٹ۔ ہاتھی
کا کان۔ ج۔ حَوَاضِرُ۔
الْحَضِيرَةُ۔ لوگوں کی جماعت مقدسہ بحیث
زخم کا مواد۔ کھجوروں کے خشک
کرنے کی جگہ۔ ج۔ حَضَائِرُ وَ
حَضِيرُ۔

المَحْضَرُ۔ لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ
دستاویز۔ اقرارنامہ۔ ج۔ مُحَاضِرُ۔



المحضر۔ حاضر ہونے والے
لوگ۔ کہتے ہیں۔ "فلان حسن
المحضر۔ فلان غائب آدمی کو
اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ و
كان ذلك بمحضر من فلان۔ اور
یہ فلاں کی موجودگی میں ہوا۔
المحضور۔ منع۔ "لبن محضور"
بہت خراب ہونے والا۔
المحضار والمحضير۔ من الخيل
وغیرھا۔ بہت تیز دوڑنے والا۔
ج۔ محاصر۔
المحتضر۔ شہری شہر میں آنے والا۔
المحتضر۔ قریب المرگ۔ کہتے ہیں۔
"اللبن محتضر فغط"
اناءك: دودھ کے لیے بہت
آفت ہے اس لیے اپنے برتن کو
چھپاؤ۔
حصرم۔ فی الكلام۔ کلام کے اعراب
یا لفظوں کی حرکات میں غلطی کرنا۔
الشيء۔ ملانا۔ لماء الشجر
درخت کی چھال اتارنا۔ القوس
کمان کو مضبوط کسنا۔
الحضرمية۔ کلام میں لکنت۔
حضرموت کی طرف منسوب۔
المحضر۔ وہ مسلمان یا شاعر جس نے
زمانہ جاہلیت و اسلام دونوں پہلے
ہوں۔
حصن (ن) حصناً وحصانة۔
واحتصن۔ الصبی۔ بچہ کو گود
میں لینا۔ پرورش کرنا۔ چھاتی سے لگانا۔
حصنه عن كذا۔ الگ کرنا۔
دور کرنا۔
حصن (ن) حوصناً وحصانة و
حصناً وحصوناً واحتصن
الطير بيضه وعلی بيضه۔

پزندہ کا انڈے سینا۔
حصنت (ك) حصناً۔ المرأة او
الشاة او الناقة۔ عورت یا اونٹنی
یا بکری کے چھوٹے بڑے پستان یا
نمقن والی ہونا۔ صفت (حصون)
أحصن۔ الرجل وبالرجل۔ حقیر
کرنا۔ أحصن بحقه۔ کسی کو حق
سے محروم کرنا۔ کسی کا حق مار لینا۔
الحصن۔ گود۔ اس قدر مقدار کہ گود میں آ
سکے کہتے ہیں۔ اعطاء حصناً
من التمر۔ اس نے اس کو ایک
گود بھر کھجوریں دیں۔ کسی شے کا
کنارہ۔ پہاڑ کی جھڑ۔ کہتے ہیں۔
"عشش الطائر۔ فی حصن
الجبل۔ پزندہ نے پہاڑ کی جھڑ میں
گھونسل بنایا۔ ج أحصان وحصون
الحصنة حصن الطائر کا اسم مصدر
الحاصنة۔ بچہ کو پالنے والی دایہ۔
ج حواصن۔ کہتے ہیں۔ حمامة
حاصن و حمام حواصن۔
الحصة انة۔ دایہ گری۔ پرورش۔ پیالہ
کی طرح کا ایک مٹی کا برتن۔
المحتصن۔ گود۔
حصان، حصوا۔ الناس۔ آگ
کو کرینی سے بلانا۔
المحصاء والمحصاء۔ آگ بلانے کی
لکڑی۔
حطان (ن) حطاً۔ اترنا۔ نازل ہونا۔
(ر) حطاً وخطوطاً۔ السعور۔
بھاؤ کا اترنا۔ گزنا۔ سستا ہونا۔
حطان (ن) حطاً طاً۔ البعير
اونٹ کا ایک جانب نکیل کودبانا۔
(ر) واحطاً الوجه۔ چہرہ پر
مہاسے نکلنا۔
حطان (ن) حطاً واحطاً واحطاً طاً۔

الشيء۔ چھوڑنا۔ رکنا۔ الحمل
جانور کی پیٹھ سے بوجھ اتارنا۔ کہتے
ہیں۔ حطاً رحله۔ اس نے
اقامت کی۔ الجلد۔ چمڑے
پر پالش کرنا۔ لوہے سے چمڑے پر
نقش کرنا۔
انحط۔ اترنا۔ الناقة فی سیرھا۔
اونٹنی کا تیز دوڑنا۔ السعور۔
بھاؤ کا گھٹنا۔ گزنا۔ ارزانی ہونا۔
کہتے ہیں۔ الاسعاس حاطة
ومنحطلة۔ بھاؤ سستا ہے۔
استحط۔ نیچے اترنے کی درخواست کرنا
کہتے ہیں۔ استحط فلاناً وذرہ
اس نے فلاں سے اپنا بوجھ اتارنے
کی خواہش کی۔ من الثمن
شیشا۔ کچھ قیمت گھٹانے کی
درخواست کرنا۔
الحطة والحطيطی۔ استحطہ
وزمراہ کا اسم ہے۔
الحطيط۔ چھوٹا۔
الحطيطه۔ قیمت کی کمی۔
الحطاط۔ مہاسہ۔ دودھ کے جھاگ۔
واحد (حطاطه)
الحطاط۔ بدلو۔
الحطط۔ نرم و نازک ابدان۔
الحطان۔ بکرا۔
الحطوط۔ تیز رفتار اکیل اونٹنی۔
الاحط۔ نرم و چکنی پیٹھ والا۔
المحط۔ والمحطه۔ اترنے کی جگہ۔
ٹھہرنے کی جگہ۔ ج۔ محاط و
محطات۔ المحطة۔ ریلوے
اسٹیشن۔
المحط والمحطه۔ چمڑے پر نقش کرنے
یا پالش کرنے کے لیے لوہے یا لکڑی
کا تیار کردہ آلہ۔



الْمَحْطُوط - مفع - اذ لم يَحْطُوط -
پالش کی ہوئی ادھوڑی۔

سيفٌ مَحْطُوطٌ - تیز کی ہوئی
تواری۔

حَطَأَ (ف) حَطَأً - الارض به
زمین پر گرا دینا۔ بچھاڑ دینا۔
به عن كذا - بٹانا۔ جھکانا۔
- بالسقي - بھینکنا۔

الْحُطْبَةُ - به شكل پست قد آدمی۔
الحِط - برتن میں بچا ہوا پانی۔ کہا
جاتا ہے۔ ”حِطٌ مِنْ تَمْرٍ“
کھجوروں کی اس قدر مقدار جو پیٹ
پر اٹھائی جاسکے۔

الْحِطِيُّ - من الناس - ذلیل آدمی۔
کہا جاتا ہے۔ ”هو حطی بطلی“
وہ ذلیل ہے۔ ”بطی۔“ تابع بن
کر آیا ہے۔

حَطَبٌ (ض) حَطْبًا وَاَحْطَبٌ
واحتطب - لکڑی چننا۔

صفت (حاطب) کہتے ہیں
”هو حاطب لیل“۔ وہ کلام میں
رطب و یابس ملانے والا ہے۔

حَطْبَةٍ - لکڑی لانا۔ حَطَبٌ و
اَحْطَبٌ - المکان۔ بہت لکڑیوں

والی جگہ ہونا۔ صفت (حطیب)
مؤنث۔ (حَطِيبَةٌ)

حَطَبٌ - به وعليه - چغلی کھانا
افتراء باندھنا۔ ”حَطَبٌ
فِي حَبْلِهِ“ اس نے اس کی
مدد و اعانت کی۔ ”وَحَطَبٌ
عليه بخير“ وہ اس کے پاس
بھلائی لایا۔

اَحْطَبٌ وَاَسْتَحْطَب - اکرم۔
انگور کی بیل سے شاخیں چھانٹنے کا
وقت آنا۔

الْحَطَبُ ايندهن - جر احطاب
ایک ٹکڑا حَطْبَةٍ کہلاتا ہے

الحطِب - مؤنث - حَطْبَةٌ -
والاَحْطَب (مؤنث حَطْبَاءُ
جر - حُطْب - بہت دُولا۔

الْحَقْلَاب - لکڑ مار - لکڑی چننے والا۔
الْحَطْوَبَةُ - لکڑی کا گٹھا۔

الْحَطَابَةُ - الحطاب کا مؤنث۔
لکڑی چننے والے۔

المحطَب - لکڑی کاٹنے کا آلہ۔
کہاڑی۔

حَطَحَطَ - الشئ - اترنا۔
الرجل - جلدی کرنا۔

حَطَمَهُ (ض) حَطْمًا وَحَطَمَهُ
توڑنا۔

حَطَمَ (س) حَطْمًا - بڑی عروا ہونا۔
تَحَطَّمَ وَاَتَحَطَّمَ - ٹوٹنا۔ کہتے ہیں

”تَحَطَّمَ الرَّجُلُ غَيْظًا“ وہ شخص
غصہ سے بھڑک اٹھا۔ ”و

انحطم الناس عليه“ لوگوں
نے اس پر بھیڑ کی۔

الحطَم - ظالم و بے درد چسروا ہا۔
والحطَم - بسیار خور۔ سب کچھ

چرٹ کر جانے والا۔
الْحَطْمَةُ وَالْحَطَامَةُ وَالْحَطَام

سوکھی ہوئی چیز کا ٹوٹا ہوا حصہ۔
حَطَامُ الدُّنْيَا - دنیا کا سامان۔

حطام البيض - انڈے کا پھلکا۔
الْحَطَام - وَاَحْطُومٌ وَاَلْمَحْطَم - شیر۔

کہتے ہیں۔ ”يَحْطُومُ“ سخت
تند ہوا جو ہر چیز کو توڑ مروڑ کر رکھ

دے۔
الْحَاطُوم - ہانہم دوا یا غذا۔ (۔

والْحَطْمَةُ وَالْحَطْمَةُ) سخت
سال۔ خشک۔

الْحُطْمَةُ - تیز آگ۔ دوزخ۔ بہت سے
اونٹ و بکریاں۔

الحطيم - کعبہ شریف کے کنارے کی
دیوار۔ رکن زمزم اور مقام ابراہیم

کے درمیان کی جگہ۔
الْحُطَيَّات - وہ زریں جو حطہ نامی

شخص کی طرف منسوب ہیں۔ بعض
کے نزدیک تلواریں کو توڑ دینے

والی زریں۔ اور بعض کے نزدیک
وہ زریں جو بھاری اور چوڑی ہوں

حَطَّ (س) حَقًّا وَحُطًّا وَاَحْطًا۔
نصیب والا ہونا۔ صفت۔ (حِطِّي)

وَحِطِيظٌ وَمَحْطُوظٌ)
الحظ - حصہ۔ بہرہ۔ حصہ خیر و فضل۔

کبھی شر کے حصہ کے لیے بھی یولا
جاتا ہے۔ مال داری۔ خوش قسمتی۔

سعادت۔ جر - حُطُوظ و
حِطَاظ وَاَحْطَا۔

حَطَبٌ (ض) حُطُوبًا وَحَطِبٌ
(س) حَطْبًا - الرجل - موٹا

ہونا۔ پست قد، موٹے پیٹ والا
ہونا۔ صفت (حَطَب) مؤنث

حَطْبَةٍ۔
الحطَب - پست قد، موٹے پیٹ والا

اجڑا۔ اکڑ۔ بخیل۔ تنگ خلق۔
حَطَرَةٌ (ض) حَطَرًا - الشئ و

حظر عليه الشئ - منع کرنا۔
روکنا۔ الشئ - محفوظ کرنا۔

یعنی غیر کے تصرف سے روک دینا۔
المواشي - مویشی کو باڑہ

میں بند کرنا۔ (۔ واحتظر)
اپنے لیے ایک باڑہ یا احاطہ تیار

کرنا۔
احتظر - به - بچنا۔
اَحْطَرٌ دوسرے کے لیے احاطہ یا باڑہ



الرجل وبه حوله - گھیرنا
 حقه بكذا احاطه کر لینا -
 حقه الحاجة حاجت لاحق ہونا
 حقت (رض) حقیقاً - الشجرة
 والحيثه سرسراہٹ ہونا -
 حقت الارض حقوفاً زمین
 کا خشک ہونا - سمعہ -
 ہرا ہونا - اللحية - داڑھی
 کا پر اگندہ ہونا - حقت
 الرجل تیز نظر بد لگانے والا -
 احق - احقاقاً - راسہ - سر میں
 مدت تک تیل نہ لگانا -
 الرجل کسی کو برائی سے یاد کرنا -
 حقف - القوم حوله وحقفوه -
 گھیرنا - احاطہ کرنا - الرجل
 مصیبت زدہ و کم مال والا ہونا -
 احتفت - القوم به - احاطہ کرنا -
 - النبت - کاٹنا - الشيء -
 چھلکا اٹارنا - کہا جاتا ہے - احتفت
 جميع ما في القدر - ہانڈی میں
 جو کچھ تھا وہ سب چٹ کر گیا -
 استحت - المال - سب مال لے
 لینا -
 الحاف - فا - تیز نظر بد لگانے والا -
 سويق حاف - تر نہ کیے ہوئے ستو -
 سوکھا ستو - خبز حاف - بغیر
 سالن کے روٹی - خشک روٹی -
 کہتے ہیں - "ماله حاف ولا
 راق" - اس کے کاموں کی دیکھ
 بھال کرنے والا یا اس کی خدمت
 کرنے والا کوئی نہیں -
 الحفاف - مص - جانب - نشان قدم
 کہتے ہیں - "جاء على حفافه"
 وہ اس کے آثار قدم پر آیا - گنجے
 کے سر کے گرد اگر د کے بال - ج

أخطل - المكان - کسی جگہ کا
 بہت اندرائن والی ہونا -
 الخطل والخطال والخطول
 اپنے اہل و عیال پر بہت کجوسی سے
 خرچ کرنے والا -
 خطاد (ن) خطوا - آہستہ چلنا -
 خطی (س) خطوة وخطوة -
 وخطه - بالمرئق - رزق
 حاصل کرنا - (احتظی)
 صاحب مرتبہ ہونا نصیب والا ہونا -
 أخطاه - نصیب والا بنانا -
 احطاه یا مال - مال کا حصہ دینا
 احطاه علی فلان - ترجیح
 دینا - فوقیت دینا -
 الخطو - مص - حصہ -
 الخطی - رتبہ والا -
 الخطوة - چھوٹا تیر - درخت کی جڑ کی
 چھوٹی شاخ - ج - خطاء وخطوات
 الخطه - حصہ - مرتبہ - ج - خطاء وخطا -
 الخطوة والخطوة - مص - مرتبہ -
 الخطی - لوگوں کا پیارا -
 الخطیكة - الخطی - کامنٹ - مالک
 کی پیاری لونڈی - ج - خطایا -
 الخطیا - آہستہ چال - کہا جاتا ہے
 مشی الخطیا - وہ آہستہ چال
 چلا -
 الخطیة - بے پھل کا چھوٹا تیر -
 الخطی - جون - واحد (خطاة)
 الخطی - حصہ - ج - أخطأ و
 ج - آخط -
 حقت (ن) حقا وحقافاً -
 الشيء - چھلکا اٹارنا -
 اللحية - داڑھی مونڈنا یا کترنا -
 - الوجه - بال اکھڑنا - دور کرنا
 حقت (ن) حقا - القوم

بنانا -
 حطر - حطر کے معنی ہیں - تشدید مبالغہ
 کے لیے ہے -
 الحطر - درخت کی شاخ جس سے بارہ
 بنایا جائے - تر کا ٹٹا - کہا جاتا
 ہے - "وقع في الحطر الرطب"
 وہ ایسے معاملہ میں پھنسا جس کی
 اس میں طاقت نہیں - "أودقذ
 في الحطر الرطب" اس نے
 چغنی خوری کی - "دجاء بالخطر
 الرطب" وہ مال شیر لایا بہت
 جھوٹ بولا -
 الخطيرة - ج - خطائر والخطار
 والخطار - ہر وہ شے جو تمھارے
 اور کسی چیز کے درمیان حائل ہو -
 بارہ - "دائره لنكد الخطيرة"
 یعنی وہ کجوس و بے خبر ہے -
 خطيرة القدس - جنت -
 الخطوس - ممنوع ناجائز کہا جاتا ہے
 "الضردات تبیح الخطورات -
 حطرب - القوس - تانت کمان پر
 مضبوطی سے چڑھانا - الجبل
 رسی کو اچھی طرح بٹنا - السقاء
 مشک بھرنا -
 تحطرب - بھر جانا -
 حطل (ن) حطلاً وخطلاً -
 وخطلاً - علیہ - حرکت و
 تصرف سے روک دینا - (خطلاً
 حطلاً) المشی - چلنے میں
 ٹھیرنا اور وقفہ کرنا - اور کہا جاتا
 ہے - "هو خطل خطلاً"
 وہ غصہ والی چال چلتا ہے -
 حطل (س) حطلاً - البعبع -
 اونٹ کا بہت اندرائن کھانا -
 صفت (حطل) ج حطالی -



أَحَقَّة - اور کہا جاتا ہے۔
”كان الطعام حَقًّا ما
اكلوا“ کھانا جس قدر انھوں نے
کھایا، اسی قدر تھا۔

الحَقّ - مص - (و الحَقّ، کنارہ
نشان قدم - کھوج - کہتے ہیں
”جاء على حَقِّه او على
حَقِّه“ یعنی وہ اس کے
نشان قدم پر آیا۔ وفلان
حَقٌّ على نفسه۔

الحَقِّق - مال کی کمی - کہتے ہیں۔
”طعام حَقِّق“ بھٹوڑا کھانا۔
”ومعيشة حَقِّق“ تنگ زندگی۔
الحَقَافَة - گرے ہوئے بال
وغیرہ۔ بچا ہوا بھوسہ۔

الحَقَّان - شترمرغ کے بچے۔ واحد
(حَقَّانَة) نوکر چاکر بھرا ہوا برتن
کہتے ہیں ”اناء حَقَّان“ بھرا
ہوا برتن۔ حَقَّان النعام۔
شترمرغ کے پر۔

الحَقَّة - پوری فیاضی۔ کپڑا پیٹنے کی
جولاسے کی لکڑی۔ اونٹ کی مقدار
خوراک۔ الحَقَّة - گرٹھے کے
کنارے کی زمین۔

المَحَقَّة - عورتوں کی سواری کی پالکی۔
تخت رواں۔ اسٹریچر۔

المَحْقُوف - مفع - محتاج۔
حَقَاء - حَقَاء - بچھاڑنا۔

الحَقَاء - ایک قسم کا پودا جس کی چھال
کو قدیم مصری کتابت کے کام میں
لیا کرتے تھے۔ واحد حَقَاءَة۔
حَقَّتْهُ (ن) حَقَّتَا - ہلاک کرنا۔
گردن توڑنا۔ حَقَّتِ الشَّيْءُ۔
کوٹنا۔

الحِقْتُ والحِفْتُ - ج - أَحَقَات

والْحُقَات (ج - حَقَّائِثُ
ایک قسم کا بڑا سانپ جو افیت
نہیں پہنچاتا۔

حَقَّحَتْ - پرندہ کی اڑان۔ یا تیر
پھینکنے کی سرسراہٹ۔ یا آگ
بھڑکنے کی آواز۔

حَقَّدَ (ض) حَقَّدَا وحُقُودًا -
وحَقَّدَا أَنَا واحتَقَّدَا - فی
العمل - کام جلد کرنا۔

وحَقَّدَ - خدمت کرنا۔
أَحَقَّدَ - الظِّلِمُ - شترمرغ کا تیز
چلنا۔ الظِّلِمُ - شترمرغ کو
تیز چلانا۔

المَحْفِيْد - پوتا۔ ج - حَقْدَاءُ -
المَحْفِيْد - خادم۔ تابع۔ مددگار۔ پوتا۔
ج - حَقَّدَ وحَقَّدَة - المَحْقَدَة
نقش و نگار کرنے والا۔

المَحْقَد - اصل۔ کوہان کی جڑ۔ کپڑے
کی گل کاری۔ ج - مَحْفَد -
ا - (و المَحْقَد) - جانور کے
چارہ کھلانے کا برتن۔

المَحْقَد - پیمانہ کرنے کا پیالہ۔ کپڑے
کا کنارہ۔
المَحْتَفِد - من السُّيُوف - تیز کاٹنے
والی تلوار۔

حَقَّرَ (ض) حَقَّرَا واحتَقَّرَا -
الارض - زمین میں گرٹھا کھودنا۔

حَقَّرَ الطريق - راستہ پر چلنے
سے نشان ڈالنا۔ وحَقَّرَ الشَّيْءُ -
تہ تک معلوم کرنا۔ العنز -
بکری کو دہلی کرنا۔

حَقَّرَ (ض) حَقَّرَا وحَقَّرَ (س)
حَقَّرَا وحَقَّرَ - دانتوں کی زردی
کے باعث ان کی جڑوں کا خراب
ہو جانا۔

أَحَقَّرَ - الصَّبِيُّ - بچہ کا دودھ
کے دانت گرانا۔ ۵ - بَثْرًا
کنواں کھودنے میں کسی کی مدد کرنا۔
حَافِر - الیرویوع - جنگلی چوہے کا
اپنے طالب پر سوراخ کو ملتیس کر
دینا۔ اور اسی سے یہ مثل مشہور
ہے: ”فلان اردغ من یربوع
محافر۔“

تَحَقَّرَ - السَّيْلُ - سیلاب کا
زمین میں گرٹھے ڈالنا۔

استَحَقَّرَ - النهر - نہر کے کھدنے
کا وقت قریب آ پہنچنا۔

الحَفَر والحَفَر - فراخ کنواں -
دانتوں کی زردی کسی کھدی ہوئی جگہ
سے نکالی ہوئی مٹی۔ ج - أَحْفَارُ
جج - أَحَافِير -

الحُفْرَة - ج - حُفَر (و الحَفِيرَة)
ج - حَفَائِر - (و - الحَفِير)
گرٹھا۔ قبر۔

الحَافِر - فا - جانور کا کھڑ۔ ج - حَوَافِر
اور قول ”النقد عند الحافر“
کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جانور
کو خریدو تو بغیر اس کی قیمت ادا
کیے ہوئے جگہ سے نہ ٹلو۔

الحَافِرَة - الحافر کا مؤنث۔ کھودی
ہوئی زمین۔ ابتدائی حالت۔

کھا جاتا ہے: ”الآن قَبْد
تَحَسَّفَ وقد كان نجيبًا
فی الحافرة۔“ وہ اب راہ راست
سے منحرف ہے۔ ابتدا میں وہ شریف
تھا۔ کسی چیز کی طرف لوٹنا۔ اور
اسی سے ہے رجح علی حافرتہ
او فی حافرتہ۔ وہ اسی راستہ
سے لوٹ گیا جس سے وہ آیا تھا۔

یابہ کہ وہ ایک کام تھا۔ پھر وہ اس



سے دست کش ہو گیا مگر اس کے بعد پھر اسی کام میں لگ گیا اور کہتے ہیں: "رجع فی حافرتہ" یعنی بوڑھا ہو گیا۔ "والتقی القوم فاقْتَتَلُوا عِنْدَ الْحَافِرَةِ" یعنی جوں ہی کہ لوگ آپس میں ملے مصروف بہ پیکار ہوئے۔

الحَفْرَى - ایک ریتی نبات جو ہمیشہ سبز رہتی ہے۔

الحَفَار - کھودنے والا۔ اور اکثر گورکن کو حَفَار کہتے ہیں۔

المَحْفَر والمَحْفَرَة والمَحْفَاس - کھودنے کا آلہ۔ کدال۔

المَحْفُوس - منع۔ زرد دانوں والا۔

حَفْرَه (ض) حَفْرًا - پیچھے سے دھوکا دینا۔ کہا جاتا ہے: "حَفَرُ اللَّيْلِ النَّهَارُ" یعنی رات نے دن کو بٹا دیا۔ "وحفروا علينا الخيل والركاب" وہ گھوڑے اور سوار لے کر ہم پر چڑھ آئے۔ ہ بالرمح کسی کو نیزہ سے مارنا۔ ہ عن كذا۔ دور کرنا۔ جلدی کرانا۔

حَافِرَه - زانو بڑا نو بیٹھا اور قریب ہونا

تَحْفَرُ وَاحْتَفَرُ - زانو یا سرین پر سیدھا بیٹھنا کودنے کے لیے تیار ہونا۔ کہتے ہیں: "احتفز في مشيه" اس نے چلنے میں کوشش کی۔

الحَفْرُ - مدت کہتے ہیں: "بَجَعَلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حَفْرًا" میں نے اپنے اور تمہارے درمیان مدت مقرر کی۔

الحَفُوز - مِنَ الْقِسَى - تیر کو تیزی

سے پھینکنے والی کمان۔

حَفَسَ (ض) حَفْسًا - کھانا۔

تَحْيَفَسَ - بستر پر تلملانا۔

الْحَيْفَسُ وَالْحَيْفَسُ - وہ موٹا جس سے بھلائی کی امید نہ ہو۔ بلا وجہ راضی یا غصہ ہونے والا۔

حَفَشَهُ (ض) حَفَشًا - پھلکا اتارنا۔

حَفَشَ السَّيْلُ الْوَادِي - سیلاب کا وادی کو پانی سے بھر دینا۔

المَطَرُ الْأَرْضَ - بارش کا زمین پر روئیدگی ظاہر کرنا۔

فَلَانًا - دھکا دینا۔

السَّيْلُ - سیلاب کا پانی ایک جگہ جمع ہونا۔ القوم عليه قوم کا جمع ہونا۔ حفش في الامر کسی کام میں کوشش کرنا۔

الْفَرْسُ - گھوڑے کا بار بار دوڑنا اور ہر بار پہلے سے اچھا دوڑنا۔

حَفَشَ (س) حَفَشًا - السَّحَابَةُ - بادل کا یکبارگی زور کی بوجھار برسانا۔ اور پھر رک جانا۔

حَفَشَ وَتَحَفَشَ - الرَّجُلُ خِيَمَهُ یا جھونپڑے میں رہنا۔

الْحَافِشَةُ - پانی کے بہاؤ کی جگہ۔ ج۔ حَافِشَاتٌ وَحَوَافِشٌ - الْحَفَشُ - ٹوکی۔ جھونپڑا یا بالوں کا خیمہ۔ کوہان۔ بوسیدہ شے۔ ج۔

أَحْقَاشٌ وَحَقَاشٌ - أَحْقَاشُ الْبَيْتِ - گھر کے سامان کی معمولی چیزیں۔

أَحْقَاشُ الْأَرْضِ - سیسی جنگلی چرواہا۔ گوہ وغیرہ۔

حَفَصَ (ض) حَفَصًا - الشَّيْءَ - جمع کرنا۔ الشَّيْءَ مِنْ يَدِهِ - اپنے ہاتھ سے چیز پھینک دینا۔

الْحَفَاصَةُ - جمع کردہ اشیاء۔ ذخیرہ۔

الْحَفَصُ - مص۔ چمڑے کا پھیلا۔

چھوٹا گھر۔ شیر کا بچہ۔ ج۔

أَحْقَاصٌ وَحَفُوصٌ - الْحَفَصُ - بیرونیہ کی گھٹلی۔

الْمَحْفَصَةُ - چمڑے کا پھیلا۔

حَفَصَ (ن) حَفَصًا - الْعُودَ - لکڑی کو ٹیڑھا کرنا۔ موڑنا۔

(— وَحَفَصَ) الشَّيْءَ - کسی شے کو ہاتھ سے پھینکنا۔ ڈالنا۔

— الْأَرْضَ - زمین کو خشک کرنا۔

— الْقَوْمَ - قوم کو اپنے پیچھے چھوڑ دینا۔ اللہ عندہ تخفیف کرنا۔

الْحَفَصُ - گھر کا سامان جو لادنے کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ گھر کا سامان اٹھانے والا اونٹ۔ وہ بورا جس میں قوم کا سامان ہو۔ بالوں کا خیمہ کمزور اونٹ۔ کہتے ہیں: "رَأَيْتُ لِحَفَصٍ عَلِيٍّ" وہ کم علم ہے گویا علم کو قلت کی بناء پر حفص سے تشبیہ دی ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے: "نَعَمْ حَفَصُ الْعِلْمِ هَذَا" یعنی یہ علم کیا خوب جاننے والا ہے۔ ج۔ أَحْقَاصٌ وَحَقَاصٌ - حَفِظَ (س) حَفْظًا - الشَّيْءَ - ضائع ہونے اور تلف ہونے سے بچانا۔ خراب ہونے سے محفوظ رکھنا۔

— الْكِتَابَ - کتاب کو زبانی یاد کرنا۔ السَّرَّ - بھیج دینا۔

— الْمَالَ - مال کی نگہبانی کرنا۔ حَفَّظَهُ - الْكِتَابَ - زبانی یاد کرنا۔ ازبر کرنا۔

حَافَظٌ حِفَاطًا وَمُحَافَظَةٌ



علی الامر۔ کسی امر پر ہمیشگی اختیار
کرنا۔ نگہبانی کرنا۔ عنہ۔
مدافعت کرنا۔ ہٹانا۔ کہا جاتا ہے
”انہ لذو حفاظ وذو محافظۃ“
وہ خود دار اور ان بان کا آدمی ہے
اَحْفَظْ۔ غصہ دلانا۔
تَحْفَظْ۔ عنہ ومنہ۔ بچنا۔
— بہ۔ کسی کی یاد کرنے کی
تکلیف دیا جانا۔ الکتاب۔
کتاب کو تھوڑا تھوڑا یاد کرنا۔
اِحْتَفَظْ۔ غضب ناک ہونا۔
— بہ۔ یاد کرنا۔ الشیء۔
وبالشیء لنفسہ۔ کوئی شے اپنے
لیے مخصوص کرنا۔
اِسْتَحْفَظْ۔ حالاً اور سراً
حال یا کسی بھید کے محفوظ رکھنے کی
درخواست کرنا۔
الحِفْظُ۔ مص۔ یاد۔ ہوشیاری۔
الحَفِیْظَةُ۔ نگہبانی۔ بچوں کی حفاظت
کا تعویذ۔ ج۔ حَفَایْظُ۔
اہل الحَفَایْظُ۔ محارم کی نگہبانی
کرنے والے۔
الحَفِیْظَةُ وَالْحِفْظَةُ۔ لائق
حفاظت شے کے لیے غصہ اور
جذباتِ حمیت۔
الحَافِظُ۔ فا۔ کسی شے کا ذمہ دار۔
الطریق الحافِظُ۔ واضح سیدھا
راستہ جو ختم نہ ہو۔ کہتے ہیں۔
رجلٌ حافظ العین۔ وہ شخص
جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو۔ ج۔
حَفَایْظُ وَحَفَایْظُونَ وَحَافِظُونَ
الحَافِظُ وَالْحَفِیْظُ۔ مِنَ الْمَلَائِكَةِ۔
اعمال نامہ لکھنے والا فرشتہ۔
وَالْحَفِیْظُ۔ محفوظ۔
الحَافِظَةُ۔ الحَافِظُ کا مؤنث۔ قوت

حافظ۔ یاد کرنے کی طاقت۔
المُحَفِّظَةُ۔ غصہ کا محرک کام۔ ج۔
مُحَفِّظَاتُ۔ المَحَفِّظَاتُ۔
مصیبتیں۔
حَفْلٌ (مض) حَفْلًا۔ وَحُفُولًا
وَحَفِیلًا۔ الماء۔ پانی کا
بکثرت جمع ہونا۔ القوم
لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ الدمع
آنسو کا کثرت سے ہونا۔
الوادی بالسیل۔ وادی کا
سیلاب سے کناروں تک بھر جانا
— السماء۔ آسمان کا زیادہ
بارش برسانا۔ الشیء۔ صیقل
کرنا۔ کہتے ہیں ”ما حفله وما
حفل به“ اس نے اس کی پروا
نہیں کی۔
حَقْلٌ۔ احتیاط سے اکٹھا کرنا۔ مزین
کرنا۔ الشیء۔ صیقل کرنا۔
— الناقة۔ اونٹنی کو دوہنا
بند کر دینا۔ تاکہ اس کے تھنوں میں
دودھ جمع ہو جائے۔
تَحَقَّلْ۔ اللبن۔ دودھ کا تھنوں
میں جمع ہونا۔ فلان۔ مزین
ہونا۔ المجلس۔ مجلس کا
لوگوں سے بھر جانا۔
احتفل۔ القوم۔ جمع ہونا۔ اکٹھا
ہونا۔ المجلس۔ مجلس کا
لوگوں سے بھر جانا۔ الوادی
بالسیل۔ وادی کا سیلاب سے
کناروں تک بھر جانا۔
الطریق۔ راستہ کا واضح و
نمایاں ہونا۔ الشیء۔ روشن
ہونا۔ بالامر۔ حسن
انتظام سے کرنا۔ فی الامر۔
مبالغہ کرنا۔ کہتے ہیں ”ما احتفل

بہ۔“ اس نے اس کی پروا نہیں
کی۔
الحَافِلُ۔ فا۔ صرع حَافِلٌ۔ دودھ
سے بھرا تھن۔ وادِ حَافِلٌ
سیلاب سے بھری ہوئی وادی۔
— جمع حَافِلٌ۔ بڑی
جماعت۔ ناقةٌ اوشاةٌ
حَافِلٌ۔ بہت دودھ والی اونٹنی
یا بکری۔ ج۔ حَفْلٌ۔ و
حَوَافِلُ۔
الحَافِلَةُ۔ الحَافِلُ کا مؤنث۔
دارِ حافلہ۔ خوب بھرا ہوا۔
آباد گھر۔ سوقٌ حافلہ
بھرا ہوا بازار۔
الحَفْلُ۔ مص۔ جماعت۔ گروہ۔
کہا جاتا ہے۔ ”عندہ حفلٌ من
الناس“۔ اس کے پاس ایک بڑی
جماعت ہے۔ جمعٌ حفلٌ
بڑی جماعت۔
الحَفِیلُ۔ بہت۔ جیسے جمعٌ حَفِیلٌ۔
بہت بڑی جماعت۔ مکانٌ حَفِیلٌ۔
بھری ہوئی جگہ۔ رجلٌ حَفِیلٌ
ہر چیز میں مبالغہ کرنے والا۔
الحَفَالُ۔ بڑی جماعت۔ بہت جمع شدہ
دودھ۔
الحَفَالَةُ۔ ہر چیز کا ردی حصہ۔ رفیل
لوگ۔ جو چیز کھانے میں سے
نکال کر پھینک دی جائے۔
حَقَالَةُ اللبن۔ دودھ کے
جھاگ۔
الحَفْلَةُ اسمرة۔ کہا جاتا ہے ”اَخَذَ
لِلْأَمْرِ حَقْلَتَهُ“ اس نے کام
میں کوشش کی۔ ”وَجَادُوا
بِحَفْلَتِهِمْ وَبِحَفْلَتِهِمْ“ وہ
سب کے سب آئے۔

حَقٌّ (رض) حَقًّا۔ علیہ ان یفعل
کذا۔ واجب ہونا۔ کہتے ہیں۔
”حَقٌّ لَّكَ ان تَفْعَلَ کَذَا“
وَحَقَّقْتَ ان تَفْعَلَ کَذَا“
یعنی اس کا کرنا تمہارے لیے سزاوار
ہے اور تم اس کے کرنے کے
لائق ہو۔
حَقٌّ (رض) حَقًّا وَحَقَّةً۔
الامر۔ ثابت ہونا۔ واجب ہونا
۔ الحاجة۔ مزورت کا سخت
ہونا۔
حَقٌّ (س) حَقَّقًا۔ الفرس۔ دوڑنے
میں گھوڑے کا اگلی ٹانگوں کی جگہ
پچھلے پاؤں رکھنا۔ صفت (أَحَقُّ)
حَقَّقَہ۔ تاکید کرنا۔ واجب کرنا۔
حَقَّقَ الْقَوْلَ وَالظَّنَّ۔ کسی
قول یا گمان کی تصدیق کرنا۔
حَاقَّہ۔ مُحَاقَّةٌ وَحِيقًا۔
فی الامر۔ کسی امر میں جھگڑا کر
کے اپنی حقاری کا مدعی ہونا۔ کہتے
ہیں: ان لہ کذا وکذا لا
یحَاقَّةُ فیہِ أَحَدٌ“ اس کے
لیے ایسا اور ایسا ہے۔ اس میں
کوئی اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔
أَحَقُّ۔ حق کہنا۔ أَحَقَّہُ۔ حق
حاصل کر لینا۔ أَحَقُّ الْأَمْرِ۔
کسی امر کو ضروری و واجب ٹھہرانا۔
اور حق ثابت کرنا۔ کہا جاتا ہے۔
أَحَقُّ عَلَیْہِ الْقَضَاءُ۔ یعنی قضا
کو اس کے ذمہ واجب کیا۔
أَحَقُّ الرَّمِیَّةِ۔ تیر اندازی کے
وقت ہی مار ڈالنا۔
تَحَقَّقَ۔ الخبر۔ خبر کا پایہ ثبوت کو
پہنچنا۔ الرَّجُلُ الْأَمْرُ۔
یقین کرنا۔

تَحَاقًا۔ حق کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑنا اور فیصلہ کے لیے جانا۔

إِدْحَقَّ۔ الرباط۔ رسی کا بندھ جانا

أَحْتَقَّ۔ الفرس۔ گھوڑے کا دہلا ہونا۔ احْتَقَّتِ الطعنه به

نیزہ کی ضرب کا کسی کو فی الحال مار ڈالنا۔ احْتَقَّ الْقَوْمُ۔

ہر ایک کا یہ کہنا کہ میرے پاس حق ہے۔ الذائقة۔ اونٹنی

کا موٹی ہونا۔ احتقہ۔ الی کذا۔ یعنی اس کو ٹوٹ کر کیا اور اس پر تنگی ڈالی۔

استحق۔ منوری و واجب قرار دینا۔ استحق الدین

قرض کی ادائیگی کا وقت قریب آ پہنچنا۔ الناقۃ۔ موٹی ہونا

الرجل۔ کسی کا گناہ کر کے مستحق سزا ہونا۔

الحق۔ مص۔ سچائی۔ راستی۔ یقین انصاف۔ ثابت شدہ۔ نصیب

مال۔ ملک۔ ہر شکاری۔ فیصل شدہ امر۔ موت۔ جہ حقوق۔ کہا

جاتا ہے۔ "هو حق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔ "وَلَحَقَّ لَا

أَتَيْكَ" بغیر تنزین کے یعنی قسم ہے حق اللہ کی۔ میں تمہارے پاس

نہیں آؤں گا۔ "وَحَقًّا لَا أَتَيْكَ" بلا لام مع تنزین۔ حقوق الداس

گھر کے منافع۔ الْحَقْلُ۔ مص۔ حق۔ یہ لفظ حق سے

خاص ہے۔ کیونکہ اس سے حصہ معین و مخصوص مراد ہوتا ہے۔ مثلاً

کہتے ہیں "هَذَا حَقِّي" یہ میرا مخصوص حق ہے۔ حقیقت امر۔ کہتے ہیں۔ "وَقَفْتُ عَلَى حَقَّة"

ذَلِكَ الْأَمْرُ۔ میں اس امر کی حقیقت تک پہنچی۔ مصیبت۔

الْحَقُّ۔ مونڈھے کے سرے کا گڑھا۔ سرین کا سرا۔ بازو کے اوپر کا حصہ

زمین کا گول ٹکڑا۔ یا پست زمین مکڑی کا جالا۔ وحق الطیب

خوشبو کی ڈبیہ۔ جہ۔ حقائق۔ الْحَقْلُ۔ چھوٹا برتن۔ مصیبت۔ عورت

جہ۔ حق و حُوق و حقائق۔ الْحَقُّ۔ مِنَ الْإِبِلِ۔ چوتھے سال

والا اونٹ۔ نر ہویا مادہ۔ اور اس کا یہ نام یوں پڑتا ہے کہ وہ

اس عمر میں بار برداری کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ اونٹنی جس کے

دانت بڑھاپے کے سبب گر گئے ہوں۔ الْحَقْلُ۔ حق و واجب۔

الْحَقِيقُ۔ لائق۔ سزاوار۔ کہتے ہیں "هو حقيق ان يفعل كذا"

وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔ "هو حقيق بكذا" وہ اس کے لائق ہے

والْحَقِيقُ عَلَى الشَّيْءِ۔ حریف لالچی۔ جہ۔ أَحْقَاء۔

الْحَقِيقَةُ۔ واجب الجمایت چیز۔ کہا جاتا ہے۔ "هُوَ حَامِي الْحَقِيقَةِ"

وَهُوَ مِنْ حِمَاةِ الْحَقَائِقِ" وہ اُس چیز کی حفاظت کرتا ہے جس کا دفاع اس کے لیے ضروری ہے

حق۔ وہ لفظ جو اپنے معنی ممنوع لہ پر دلالت کرے۔ حقیقۃ

الشیء۔ چیز کا منتفی اور اس کی اصل۔ جہ۔ حَقَائِقُ۔

الْحَاقُّ۔ فا۔ وسط۔ نیچ۔ کہا جاتا ہے۔ "سقط على حاق راسه"

اس کے نیچ سر پر گرا۔ وَجِئْتُ فِي

حَاقِ الشَّتَاءِ" میں اس کے پاس وسط سرما میں آیا۔ وركب

حَاقِ الطَّرِيقِ" وہ بیچ راستہ پر چلا۔ کسی صفت میں کمال رکھنے

والا۔ کہا جاتا ہے رجل شجاع حاق الشجاع۔ وہ بہادری و

شجاعت میں کامل ہے۔ "واخذني حاق الجوع" مجھ کو سچی بھوک لگی۔

الْحَاقَّةُ۔ الحاق کا مؤنث۔ مصیبت آفت۔ قیامت۔ کہا جاتا ہے۔

"هو رجل حاقة الرجل" وہ مردانگی میں کامل ہے۔ "وهو شجاع حاقة الشجاع" وہ

بہادری میں کامل ہے۔ الْآحَقُّ۔ افعَل التفضیل۔ لہذا قول

"هو احق من فلان" کا مطلب یہ ہے کہ حق گود و نوں کو پہنچتا ہے

مگر وہ اس سے زیادہ حقدار ہے۔ کبھی خصوصیت کے معنی بھی دیتا

ہے۔ جیسے "زيد احق بماله" یعنی زید ہی بلا شرکت غیرے اپنے

مال کا حقدار ہے۔ الْمُحَقَّقُ۔ مفع۔ "كلام مُحَقَّقُ" محقق و مرتب کلام۔ ثوب مُحَقَّقُ۔

مضبوط بناوٹ کا کپڑا۔ الْمُحَقَّقُ۔ مفع۔ لائق۔ قابل۔ سزاوار

کہا جاتا ہے۔ "هو محقق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔ "هو محقق

ان يفعل كذا" وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔ الْحَقَّارِيُّ۔ حق کی طرف منسوب۔

جیسے رَبَّانِي۔ رب کی طرف منسوب۔ حَقَب (س) حَقَبًا و أَحْقَب

المطر۔ بارش کا رک جانا۔ العام۔ سال کا بے بارش

سال کا بے بارش



والا ہونا — المعدن — معدن
کا ختم ہونا — نائل فلان
کسی کی مہربانی و فضل کا کم یا منقطع
ہونا — الامر — معاملہ کا خراب
ہونا۔

أَحْقَبَ — پیچھے سوار کرنا۔
أَحْتَقَبَ — الاثم — مرتکب گناہ
ہونا — زید اعلیٰ ناقتہ۔
پیچھے سوار کرنا۔ د — واستحقب
الشیء — کسی چیز کا ذخیرہ کرنا۔
کچا وہ یا پالا لال کے پیچھے باندھنا۔
الحُقْبُ — ج — حَقَاب — ود الحُقْبُ
ج — أَحْقَاب — و أَحْقَب —
اسی سال یا اس سے زائد کا زمانہ
زمانہ۔ ایک سال یا بہت سے
سال۔

الحَقْبُ — اونٹ کا تنگ زیور لٹکانے
کا عورت کا کر بند۔
الحِقْبَةُ — مدت۔ سال۔ ج حَقْب
و حَقُوب۔

الحِقَاب — عورت کا کر بند جس میں وہ
زیور لٹکاتی ہے۔ ناخن کے بڑ کی
سفیدی۔ ج — حَقْب —
الحَقِيبَةُ — سوار کے پیچھے گھوڑے پر
بندھنے والی چیز۔ مسافر کا خوراک
وغیرہ رکھنے کا بھیلہ۔ ج —
حَقَائِب۔

الأَحْقَب — گورخر۔ مؤنث۔ حَقْبَاء
حَقْدَ (ض) حَقْدًا و حَقْدًا و
حَقِيْدَةً و حَقْدَ (س) حَقْدًا
و تَحَقَّدَ — علیہ۔ کینہ
و بعض رکھنا۔ صفت (حَاقِدًا)
ج — حَقْدَه۔

حَقْدَ المَطَرِ — بارش کا رک جانا۔
— المعدن — کان کا ختم ہو جانا

اور اس میں سے کچھ نہ نکلنا۔
— المناقِطَةُ — اونٹنی کا چربی
سے بھر جانا۔
أَحْقَدَ ۵ — کینہ و ربنا۔
تَحَاقَدَ — القوم — ایک دوسرے سے
کینہ رکھنا۔

احتقد — المطر — بارش کا کرنا۔
— علی فلان — کینہ رکھنا۔
الحقد — ج — أَحْقَاد و حَقُود —
و الحقیقة — ج — حَقَائِد —
ولی کینہ۔ پوشیدہ دشمنی۔
الحَقُود — بہت کینہ رکھنے والا۔
حَقْرَ (ض) حَقْرًا و حَقْرِيَّةً —
— ۵ — حقیر سمجھنا۔ چھوٹا جانا۔
حقرا لشیء ادا الرجل — کم قدر
ہونا۔ ذلیل ہونا۔

حَقْرَ (س) حَقْرًا و حَقْرَ (د) —
حَقْرًا سَرًّا — ذلیل ہونا۔ صفت
(حَقِير و حَقِيرٌ و حَقِيرٌ)
حَقْرَه — ذلیل کرنا۔ کم قدر کرنا۔
أَحْقَرَه و أَحْقَرَه و اسْتَحْقَرَه —
ذلیل سمجھنا۔ حقیر جانا۔
تَحَاقَر — اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔
کہتے ہیں "تَحَاقَرَتِ اِلَیْہِ نَفْسُه"
ذلیل ہو گیا۔

الحَقَارَةُ و الحَقَاةُ و الحَقَارَه
و المَحْقَرَه — ذلت۔ کم قدری۔
کہا جاتا ہے۔ "هَذَا اَلْاَمْرُ مَحْقَرَةٌ"
لک — یہ امر تم کو حقیر و ذلیل کر
دے گا۔

المَحْقَرَات — چھوٹے چھوٹے۔ ادنیٰ چیزیں
الحَقِيقُط و الحَقِيقُطَان — تیز۔ بعض
کے نزدیک نہ تیز۔ مؤنث۔
(د الحَقِيقُطَانَةُ)
حَقَقَتْ (ن) حَقُوفًا — الظبی

ہرن کا ریت کے تودہ میں بیٹھنا۔ یا
ہرن کا جسم کو ٹیڑھا کر کے اور موڑ کر
بیٹھنا — الشیء — خمدار ہونا۔
صفت۔ (حَاقِف)

أَحْقَوَقَفَ — لمبا و ٹیڑھا ہونا۔
الحِجَقَف — ریت کا لمبا اور پیچ دار
قطعہ۔ ج — أَحْقَاف و حَقُوف
و حَقَاف و حِقْفَةٌ — ج —
حَقَائِف۔

المَحْقَف — کھانا پینا ترک کرنے والا۔
حَقِلَ (س) حَقْلًا و حَقْلَةً —
البعیر ادا الفرس — اونٹ یا
گھوڑے کا مٹی کھانے سے پیٹ کے
درد میں مبتلا ہونا۔
حَاقَلَه — مُحَاقَلَةً — کھڑی کھیتی کو کھینے
سے پہلے بیچنا۔

أَحْقَلَت — الاسر — زمین کا قابل
زراعت ہونا۔ احقل الزرع —
کھیتی کا پتے نکالنا — الرجل
فی الركوب — سوار کا سواری
کی پیٹ سے چھٹنا۔

أَحْقَل — اپنا کھیت لگانا۔
الحَقْلُ — قابل کاشتت زمین۔ سبز
کھیتی۔ ج — حَقُول — واحد
(حَقْلَةٌ)

الحَقْل — ہودج۔ پاکی۔ (و الحَقْلَةُ)
گھوڑے یا اونٹ کے پیٹ میں مٹی
ملا چارہ کھانے سے درد۔

الحَقْلَةُ — بتثلیث الحاء — باقی
ماندہ دودھ یا پانی۔ روی کھجور کھجور
کا بچا کھچا۔

الحَاقِل — فا۔ کاشتکار۔
المَحْقَلَةُ — بویا ہوا کھیت۔
الحَقِيمَان — آنکھوں کے دو بیرونی
کونے۔



حَدَّثَكَ (ن ص) حَقًّا - ردک لینا بند کرنا۔ اور اسی سے ہے۔

”حقن بولکہ“ اس نے پیشاب کو ردک لیا۔ دَمَهُ۔ خون کو گرنے سے بچایا۔ مَاءُ وَجْهِهِ۔ آبرو کی حفاظت کرنا۔

اللسن۔ دودھ کو مکھن نکالنے کے لیے مشکیزہ میں جمع کرنا۔

المريض۔ بیمار کا پیشاب رکنا۔ حقنہ کا استعمال کرنا۔

الدم۔ خون کا زخم میں جمع ہونا۔ الحقنہ۔ ہر وہ دوا جو بیمار کے مقعد سے فصد نکالنے کے لیے پڑھائی جائے۔

الحقنہ۔ پیٹ کا درد۔ ج۔ آحقان۔

الحاقن۔ فا۔ پیشاب روکنے والا اور اسی سے یہ مثل مشہور ہے۔

”لَا رَأْيَ لِحَاقِنٍ“ یعنی پیشاب روکنے والے کی رائے میں کوئی وزن نہیں۔ کیونکہ اس حالت میں وہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ گویا ایسے مضطر شخص کے لیے یہ مثل بولی جاتی ہے جو خود اپنے امر کا مختار نہ ہو۔

الحاقنہ۔ الحاقن کا مؤنث۔

معدہ۔ ہنسلوں کا درمیان حصہ۔

ج۔ حَوَاقِنُ۔ اور اسی سے یہ مثل مشہور ہے۔ ”لَا لِحَقْنٍ حَوَاقِنُكَ يَدَا قَيْنِكَ“ جو تہدید و دھمکی کے موقع پر بولی جاتی ہے۔

الحقین۔ روکا ہوا۔ جمع کیا ہوا۔

کتے ہیں۔ ”سَقَاهُ اللبَنَ“ یعنی اس نے اس کو مشکیزہ میں رکھا ہوا دودھ پلایا۔

ج۔ حقنی۔

المحقن والمحقنة۔ حقن کی پیکاری

المحقن۔ دودھ جمع کرنے کا مشیزہ۔

المحقان۔ پیشاب روکنے والا۔

عام لوگ المحقن اور المحقن

کو پانی کی ٹنکی یا حوض کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

حقاه (ن) حقوا۔ کوکھ پر مارنا۔

حقی۔ درد کر سے بیمار ہونا۔ گوشت

کھانے سے درد شکم والا ہونا۔

صفت (محقو و محقو) محقو،

تحقی۔ درد کر کی شکایت رکھنا۔

الحقو۔ کوکھ۔ ازار۔ پہاڑ کا کنارہ

ج۔ حقاء و آحق و آحقاء

و حقی۔ کتے ہیں۔

”لَا ذِ بِحَقْوِيَّةٍ“ اس نے اس سے

فریاد دہی چاہی۔

الحقواء والحقوة۔ ازار یا ازار

کے باندھنے کی جگہ۔ گوشت کھانے

سے پیٹ کا درد۔

حَكَّ (ن) حَكًّا۔ الشئ بالشئ

او علیہ۔ رگڑنا۔ گھسنا۔

الشئ۔ پھلکا اتارنا۔

و آحَكَّ و آحَتَّ (الکلام

فی صدرہ۔ بات کا دل میں گھر

کر جانا۔ کتے ہیں۔ ”ما حَكَّ فِي

صدري كذا“ مجھ کو یہ بات

نہیں جچی۔ حَكَّهُ و آحَكَّهُ

إحکاگا و احتکَّ و استَحَكَّ۔

سر کھلانا۔ و احتك بالشئ

کسی شے کے ساتھ لازم ہونا۔

حَاكَّ۔ مُحَاكَّةٌ و جگاگا۔

الرجل۔ مقابلہ کرنا۔ برابری کرنا

تَحَكَّكَّ۔ یہ۔ کسی کے ساتھ برائی

کرنے پر تیار ہونا۔ مثل ہے۔

”تَحَكَّكَّتِ الْعُقُوبُ بِالْحِيلَةِ“

یعنی بھوسا نپ کو تکلیف دینے پر

تیار ہوا۔ یہ مثل اس شخص کے حق

میں بول جاتی ہے جو اپنے سے

زیادہ طاقتور سے مقابلہ کرے۔

تَحَاكَّا۔ ایک دوسرے کو کھلانا۔ آپس

میں مقابلہ کرنا۔

الحِكَّ۔ حِكَّ (د۔ و الحكاك)

جانور کے کھلانے کے لیے درخت

کا تنہ۔ کتے ہیں۔ ”فَلَانٌ حِكٌّ“

او حِكَّاكُ شَرٌّ“ فلاں بہت شر

انگیز ہے۔

الحُكَّ۔ ملا حوں کا قطب نما۔

الحُكَّاكَاتُ۔ وسوسے۔ شکوک۔ واحد

(حَكَّاكَةٌ)

الحَكَّ۔ سنگ مرمر کے مشابہ سفید

پتھر۔ مونڈھے ہلاتے ہوئے چلنے والی

عورت کے مانند رفتار۔

الحَكَّةُ۔ نرم پتھروں والی زمین۔

الحُكَّ۔ شری لوگ۔ برائی والے۔

اپنی حاجتوں کی طلب میں اصرار کرنے

والا۔ واحد

الحِكَّةُ۔ حَكَّ۔ کا اسم۔ غارش۔

کھجلی۔ حَكَّةُ الْاَلْفِ

ناک میں سوزش و جلن جو ٹھنڈی ہوا

سوکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور

اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے۔

آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے

ہیں۔ شک۔

الحَاكَّةُ۔ دانت۔ کہا جاتا ہے۔ ”مَا

بَقِيَ فِي فَمِهِ حَاكَّةٌ“ اس

کے منہ میں کوئی دانت نہیں بچا۔

الحُكَّاكُ۔ لورک الیڈ۔ قلمی شورہ کھجلی

دار ایک بیماری۔

الحُكَّاكَةُ۔ کھرچن۔ کھرچ کر اتاری ہوئی

چیز۔
الْحُكَاكُ - ہم کھولوگ۔ کہتے ہیں۔
”لست من أحمك“ تم اس کے مردوں میں سے نہیں ہو۔
الْحَكْ - جس کے منہ میں دانت نہ ہوں۔ پُوپلا۔ تراشا ہوا کھر۔
الْحُكَاكُ - بہت کھرچنے والا۔ بہت رگڑنے والا۔ امتحان کے لیے سونے کو رگڑنے والا۔
المُحَكَّ - کسوٹی۔
المُحَكَّكُ - منع۔ الجَذْلُ الْمُحَكَّكُ - تنہ جو خارش آونٹ کے کھیلانے کے لیے نصب کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں۔ ”أنا جَذَلْتُهَا الْمُحَكَّكُ وَعَذَّ يَقْهًا الْمَرْجَبُ“ یعنی میری رائے سے اس طرح شفا حاصل کی جاتی ہے جس طرح آونٹ تنہ سے شفا حاصل کرتا ہے۔

حَكَاءُ (ن) حَكَاءٌ وَ أَحْكَاءٌ وَ أَحْتَكَاةٌ - العقدۃ - گرہ باندھنا۔ مضبوط کرنا۔ کہا جاتا ہے۔
”إحتكأت العقدۃ“ گرہ کا کسنا۔ مضبوط ہونا۔ کہتے ہیں۔
”إحتكأ الشيء في صدری“ وہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اور اب مجھے شک نہ رہا۔
الحُكَاةُ وَ الْحُكَاةَةُ - بڑا اگر گٹ۔
حَكْرَةٌ (ض) حَكْرًا - گھٹانا۔ ظلم کرنا۔ بری معاشرت رکھنا۔ زندگی بسر کرنے میں تنگی و مشقت ڈالنا۔

حَكِرَ (س) حَكْرًا - اصرار کرنا۔
مذکر کرنا۔ جھگڑا ہونا۔ صفت
اَحْكِي - بالامر۔ اپنے لیے مخصوص کر لینا۔ خود مختار و

خود سر ہونا۔ منگافروخت کرنے کے لیے غلہ روک رکھنا۔
حَاكِرَةٌ - مُحَاكِرَةٌ - جھگڑا کرنا۔ مقابلہ کرنا۔
تَحَكَّرَ وَ أَحْتَكَّرَ - الشيء - منگایینے کے لیے روک رکھنا۔
وَتَحَكَّرَ عَلَيْهِ - حسرت و افسوس کرنا۔
الحَكِر - مصد - والحَكِر - مَقْطُوعُ

پانی یا کھانا۔ چھوٹا پیالہ۔
الحَكِرُ وَ الْحَكِر - منگایینے کے لیے روکی ہوئی چیز۔ مَقْطُوعُ اَکْهَانَا یا دوہ۔

الحَكِرَةُ - غلہ کی بندش۔
الْحَاكِرَةُ - پائین باغ۔
حَكَشَ (ض) حَكَشًا - الوجَلُ آدمی کا سکرنا۔
جمع کرنا۔ الوجَل - ظلم کرنا
حَكَفَ (ض) حَكُوفًا - الوجَل کسی کام میں سست و ڈھیلا ہونا۔

حَكَلَ (ن) حَكَلًا وَ أَحْكَلَ وَ أَحْتَكَلَ - الامرُ عَلَيْهِ - دشوار و مشتبہ ہونا۔ غیر واضح ہونا۔
تَحَكَّلَ - جہالت سے اصرار کرنا۔
الْحُكْلُ - وہ چیز جس کی آواز سنائی نہ دے۔ کہا جاتا ہے۔ ”تَكَلَّمَ كَلَامَ الْحُكْلِ“ اس نے غیر مفہوم کلام کیا۔

الْحَكْلُ - فی الفرس - گھوڑے کے ٹخنوں کا ڈھیلا پن۔
الْحَكْلَةُ - کلام میں لکنت۔ کہتے ہیں ”فی لِسَانِهِ حَكْلَةٌ“ اس کی زبان میں لکنت ہے۔ جہالت کی وجہ سے اصرار۔

حَكَمَ (ن) حُكْمًا - وَ حُكُومَةً - بِالْأَمْرِ وَ لِلرَّجُلِ - اَدْعِيهِ وَ بَيْنَهُمَا - حُكْمٌ دِيْنًا - فَيُفْصَلُ دِيْنًا - حَكَمَ (ن) حُكْمًا - واپس ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ ”أَحْكَمَهُ فَاحْكَمَ“ اس نے اس کو واپس کیا، تو وہ واپس ہو گیا۔ الفرس - گھوڑے کے منہ میں حکم لگانا۔
ہ - عَن كَذَا - منع کرنا۔ واپس کرنا۔

حَكَمَ (ن) حُكْمَةً - دانا ہونا۔ دورانِ اندیش ہونا۔ حاکم بنانا۔
حَكَمَهُ فِي الْأَمْرِ - فیصلہ کرنے کے لیے کوئی معاملہ سپرد کرنا۔
عَن كَذَا - لُوطَانًا وَ مَنَعُ كَرْنَا - حَاكَمَهُ جَهْلًا وَ كَرْنَا - حَاكَمَهُ إِلَى الْحَاكِمِ - حاکم کی طرف بلانا۔
أَحْكَمَ - الشيء - مضبوطی سے کرنا۔
أَحْكَمْتُهُ التَّجَارِبُ - تجربوں نے اس کو دانا بنا دیا۔
أَحْكَمَ السَّيْفِيَّةَ - برے کام کے کرنے سے ہاتھ پڑ لینا یا اس کے نتیجہ بد سے اس کو واقف و آگاہ کرنا۔
ہ عَنِ الْأَمْرِ - روکنا۔ منع کرنا۔ الفرس - گھوڑے کے منہ میں حکم لگانا۔

تَحَكَّمَ - فِي الْأَمْرِ - اپنی رائے سے فیصلہ دینا۔ حکم نافذ ہونا۔ کسی امر میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا۔
إِحْتَكَمَ - فِي الْأَمْرِ - ثالث منظور کرنا۔
النَّاسُ إِلَى الْحَاكِمِ - لوگوں کا حاکم کے پاس اپنا مقدمہ لے جانا۔
عَلَى خِلَافِ ارَادِهِ - موافق طلب کرنا۔
الشيء - اپنی خواہش کے مطابق کسی



چیز میں تصرف کرنا۔ الامر۔
مضبوط ہونا۔
تَحَاكَمُوا۔ الی الحاکم۔ حاکم کے
پاس اپنا جھگڑا لے جانا۔
استَحْكَم۔ الامر۔ مضبوط ہونا۔
- علیہ الکلام۔ کلام کا کسی کے
اچھی طرح سمجھ میں نہ آنا۔
الحُکْم۔ مص فیصلہ۔ ج احکام۔
الحُکْم۔ حکم جاری کرنے والا۔ حاکم۔
فیصلہ کرنے والا۔ مفرد و جمع ہر
دو کے لیے استعمال ہوتا ہے،
رجلٌ حَکَمَ۔ عمر سیدہ
آدمی۔
الحُکْمَةُ۔ انصاف۔ علم۔ بردباری
فلسفہ۔ حق کے موافق کلام۔ کام
کی درستی۔ ج۔ حُکْم۔
الحُکْمَةُ۔ لگام کا وہ حصہ جو گھوڑے
کے دونوں جیروں کے جانب ہو۔
- من الانسان۔ چہرے کا
سامنے کا حصہ۔ قدر و منزلت۔
الحُکُومَةُ۔ مص۔ گورنمنٹ۔
الحاکم۔ قاضی۔ گورنر۔ جج۔
ج۔ حُکَّام و حاکمون
الحکیم۔ دانا۔ عالم۔ فلاسفہ۔ ج
حُکَمَاء۔ مؤنث حکیمہ۔
- قصیدہ حکیمہ۔ دانائی و
حکمت سے بھرا ہوا قصیدہ۔
الحَکِیْم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء
حسنیٰ میں سے ایک اسم۔
الاحکومۃ۔ تحکم فی الامر۔ کا اسم۔
المُحَکِمَةُ۔ کھپڑی۔ ج۔ تحاکم۔
المُحَکَم۔ مفع۔ آزمودہ۔
والمُحَکَم۔ اپنے نفس کے ساتھ
انصاف کرنے والا۔
حَکَى (ض، ح) حَکَا۔ حَکَا۔

الکلام۔ کسی سے کلام نقل کرنا
- الخبر۔ بیان کرنا۔
فلاناً۔ کسی سے مشابہ ہونا۔
الشیء۔ مشابہ بنانا۔ حکمی
علیہ جھگی کھانا۔ العُقْدَةُ
گرہ باندھنا۔
آحَلَى۔ اِحْکَاء۔ العُقْدَةُ۔ گرہ
مضبوط باندھنا۔
حَاکَى۔ حُکَاکَا۔ کسی کے
مشابہ ہونا۔ مانند ہونا۔
لاحتکی۔ لاِحْتِکَاء۔ الامر۔ کسی
امر کا مضبوط ہونا۔
الحِکْمَى۔ چغندر (مذکر و مؤنث ہر دو
کے لیے،
حَلَّ (ن، ض) حَلَّ۔ العُقْدَةُ۔ گرہ
کھولنا۔
اِحْتَلَّ۔ العُقْدَةُ۔ گرہ کا کھل جانا۔
حَلَّ (ن، ض) حُلُولًا۔ علیہ
آمر اللہ۔ خدا تعالیٰ کا حکم
واجب ہونا۔
حَلَّ (ن، ض) حَلَّ وَحَلَّلاً وَحُلُولًا
- المکان و بال مکان
کسی جگہ اترنا۔ بہ فی
المکان۔ کسی کو کسی جگہ اترنا۔
حَلَّ (ض، جَلَّ) الشیء۔ کسی
چیز کا حلال ہونا۔ الدین
ادائیگی قرض کا وقت آپہنچنا۔
الیمین۔ قسم پوری کرنا۔
الرجل۔ احرام سے نکلنا۔
حُلَّ۔ الجامد۔ پگھلایا جانا۔
- المکان۔ آباد ہونا۔
حَلَّ (ن، ض) حَلَّ۔ پاؤں یا ٹخنے
میں ڈھیل پین ہونا۔ صفت
دَاخَلَ۔ ج۔ حُلَّ۔
حَلَّ (ض، ح) حَلَّ وَحَلَّلاً وَحُلُولًا۔ و

تَحَلَّی۔ الشیء۔ کسی شے کو
حلال قرار دینا۔ جائز ٹھہرانا۔
الیمین۔ قسم کا کفارہ ادا
کرنا۔ حَلَلَهُ بِالْمَکَانِ
اتارنا۔
آحَلَّ۔ اِحْلَالًا۔ عہد و پیمان
سے آزاد ہونا۔ المَحْرَم۔
محرم کا احرام سے نکلنا۔
اشہر حرام کے علاوہ مہینوں میں
داخل ہونا۔ بنفسہ۔ سزا
کا مستحق ہونا۔ اَحْلَهُ
بِالْمَکَانِ اَوِ الْمَکَانَ۔ کسی جگہ
اتارنا۔ الشیء۔ حلال کرنا
- علیہ الامر۔ واجب کرنا
- الناقۃ علی ولدھا۔ دودھ
جاری ہونا۔
اِنْحَلَّ۔ کھل جانا۔
تَحَلَّلَّ۔ فی یمینہ۔ شرطیہ قسم
کھانا۔ اپنی قسم میں مستثنیٰ کرنا۔
میسے۔ "و اللہ لا فعلن ذلك
ان شاء اللہ۔ یا۔ اِلَّا ان
یکون کذا۔" - من
یمینہ۔ کفارہ ادا کر کے قسم
سے آزاد ہونا۔
تَحَلَّلَهُ۔ حلال کر دینے کو چاہنا۔
اِحْتَلَّ۔ المکان و بال مکان۔ کسی
جگہ اترنا۔ کہا جاتا ہے۔ لاِحْتَلَّ
القوم و بالقوم۔ وہ قوم کے
پاس ٹھہرا۔
اِسْتَحَلَّ۔ الشیء۔ جائز سمجھنا۔ جائز
شمار کرنا۔ جائز ٹھہرانے کی اجازت
چاہنا۔
الْحَالَّ۔ فا۔ ج حُلَّ وَحُلُول۔
وَحُلُولًا وَدِ الْحُلُولِ۔ - حَالَّ
کا اسم مبالغہ۔ گرہ کھولنے والا۔

کہتے ہیں: "فَلَا تُحْلَلُ لِلْعُقْدِ
كَافٍ لِلْمَهْمَاتِ" فلاں بہت
عقدہ کشا اور مشکلات کے لیے
کافی ہے۔
الْحِلُّ - مص - حلال - جائز۔ مکہ معظمہ
کے حرم شریف سے باہر کا علاقہ
کسی جگہ اترنے والا۔ کہتے ہیں۔
"مَا زِلْتُ حَلًّا بِهَذَا
الْبَلَدِ" میں اس شہر میں ہمیشہ
اترنے والا ہوں۔ وَالشَّهْرُ الْحَلُّ
"الشَّهْرُ حُرْمٌ" کے علاوہ مہینے۔
الْحِلُّ - نشاء - قسم سے برایت۔
الْحِلُّ وَالْحُلُّ - احسام سے
نکلنے کا وقت۔ کہا جاتا ہے۔
"فَعَلَهُ فِي حِلِّهِ وَحُدُودِهِ"
اس نے اس کو احرام کی حالت
میں اور احرام سے نکلنے کے
وقت کیا۔
الْحِلَّة - حُلُول - سے اسم مرہ۔
ترکل کا بڑا ٹوکرا۔ (د - وَالْحِلَّةُ)
محلہ۔ مجلس۔ جمع ہونے کی جگہ۔
— مِنْ الشَّيْءِ - کسی شے
کی طرف و سمت۔ ج۔ حِلٌّ -
وَحِلَالٌ - کہا جاتا ہے۔ "فِيهِ
حِلَّةٌ أَوْ حِلَّةٌ" اس میں کمزوری
ہے۔ — الْحِلَّةُ - اترنے کی
بیٹیت۔ اترنے والی قوم جس کی
تعداد زیادہ ہو۔ کہا جاتا ہے۔
"حِجُّ حَلَالٌ" اترنے والا قبیلہ
جو تعداد میں کثیر ہو۔
الْحِلَّة - نیا کپڑا۔ کپڑوں کا جوڑا
ہتھیار۔ کہا جاتا ہے۔ "كَيْسٌ
الْمُحَارِبُ حُلَّتَهُ وَبَوَّاتُهُ"
لڑنے والے نے اپنا لباس اور
اپنے ہتھیار زیب تن کیے۔ ج

حُلٌّ - وَحِلَالٌ -
الْحِلَالَةُ - چرخہ۔
الْحِلَالٌ - جائز و حلال۔ احرام سے
نکلنے والا۔ "السَّحَرُ الْحِلَالُ"
وہ عجیب باتیں جن سے عقل و نگ
رہ جائے اور شیطان اثر سے وہ
پاک ہوں۔
الْحِلَالٌ - حَلَالٌ - کجاوہ کا
سامان۔ عورتوں کی ایک سواری۔
الْحَلِيلُ - حَلَالٌ - خاوند۔
(— وَالْحَلِيلَةُ) بیوی۔
حَلِيلٌ - ایک گھر میں ساتھ رہنے
والا۔ ج۔ اِحْلَاءٌ - مرنٹ
حَلِيلٌ وَحَلِيلَةٌ - ج۔
حَلَائِلٌ -
الْأَحْلَلُ - کمزور ٹانگوں والا۔ مرنٹ
حَلَاءٌ - ج۔ حُلٌّ -
الْأَحْلَالُ - رسوم حج سے فراغت۔
الْأَحْلِيلُ - پیشاب نکلنے کا سوراخ۔
تھن کا سوراخ جس سے دودھ
نکلتا ہے۔ ج۔ آحَالِيلٌ -
الْحِلَّةُ - قسم کا کفارہ۔ قسم میں
استثناء۔
التَّحْلِيلُ - بمعنی اِحْلِيلُ۔
الْمَحْلُ - اترنے کی جگہ۔ ٹھیرنے کی
جگہ۔ ج۔ مَحَالٌ -
مَحِلٌ - الدِّينُ - قرص کی میعاد۔
الْمُحِلُّ - فا - رَجُلٌ مُحِلٌّ
حرم کی پردہ دری کرنے والا۔
بے عمد آدمی۔
الْمَحَلَّةُ - اترنے کی جگہ۔
الْمُحَلَّلُ - مَفْعٌ - مَاءٌ مُحَلَّلٌ
اونٹوں کے اترنے سے گدلا ہو
جانے والا پانی۔ — مَكَانٌ
مُحَلَّلٌ - لوگوں کے زیادہ ٹھہرنے

کی جگہ۔
حَلَاءٌ (ف) حَلَاءٌ - بالسيف -
تلووار سے مارنا۔ ہ بالسوط -
کوڑے سے مارنا۔ ہ الارض -
زمین پر پھیلانا۔ حَلَاءُ الشَّيْءِ -
کسی کو کوئی شے دینا۔ حَلَاءٌ -
الجلد - کھرچنا۔ چھیننا۔
حَلَاءٌ وَأَحْلَاءٌ - کسی کے سرمہ
لگانا یا انجن لگانا۔ حَلَاءٌ لَهُ
حَلْوٌ - کسی کے لیے سرمہ یا انجن
رگڑنا۔ گھسنا۔
حَلِيٌّ - (س) حَلَاءٌ - الاديح
کھال اتارتے وقت چھری لگ کر
کھال کا خراب ہونا۔ —
حَلَيْتُ الشَّيْءَ - ہونٹ پر آبلہ
پڑھانا۔
حَلَاءٌ - تَحْلِيًّا وَتَحْلِيَّةً -
عَنِ الْمَاءِ - پانی پر اترنے سے
روک دینا۔ ہ - (الشَّيْءِ) کسی
کو کوئی شے دینا۔
الْحُلُودُ وَالْحُلَاءَةُ - سرمہ۔ چڑے کی
بھلی جو رنگنے والا اتارتا ہے۔
الْحَالِيَّةُ - بڑا زہریلا سانپ۔
الْحَلَاءُ - وَالتَّحْلِيُّ وَالتَّحْلِيَّةُ -
چڑے پر کے بال۔ چڑے کا میل
اور اس کی سیاہی۔ —
التَّحْلِيُّ - چھری لگا ہوا چمڑا۔
الْحَلَاءُ - بنار کے بعد ہونٹوں پر
کا پھالہ۔
التَّحْلِيَّةُ - مص - بو بھل - بھاری۔
رَجُلٌ تَحْلِيَّةٌ - بو بھل آدمی۔
الْمُحْلَاءُ وَالْمُحْلَاءَةُ - چمڑا صاف
کرنے کی چھری۔
حَلَبٌ (ن) حَلْبٌ وَحَلْبًا -
وَحِلَابًا - الشَّاةُ - بکری کا



دوبنا۔ کہا جاتا ہے۔ "حَلَبُ
الدَّهْرَ أَشْطَرُكَ" یعنی زمانہ کی
بھلی بری باتوں کو اس نے خوب
آزمایا۔ أَشْطَرُ۔ اونٹنی کے
تھن کے باکھ کو کہتے ہیں۔
کہتے ہیں۔ "حَلَبْتُ بِالْإِسْعَدِ
الْإِسْعَدُ" یعنی تم نے ایسے سے
مدد لی جو کام کو بخوبی انجام دے
سکتا ہے۔ مَالَهُ حَلَبٌ و
لَا حَلَبٌ یعنی اس کے پاس
نہ اونٹنیاں ہیں نہ اونٹ۔
حَلَبُ الرَّجُلِ۔ زانو کے بل
بیٹھنا۔

حَلَبْتُ وَأَحْلَبْتُ۔ الرَّجُلُ
دوسرے کے لیے دودھ دوہنا۔
حَلَبْتُهُ وَأَحْلَبْتُهُ۔ ناقتی
اونٹنی کو دودھ دوہنے کے لیے
دینا۔
حَلَبَ الْقَوْمُ حَلْبًا وَحُلُوبًا۔ و
أَحْلَبُوا۔ کسی کی مدد کے لیے
قوم کا ہر طرف سے سمٹ آنا۔
حَلَبَ (دس) حَلْبًا۔ الشَّعْرُ
بال کا کالا ہونا۔

حَالِبٌ۔ ساتھ مل کر دودھ دوہنا۔
(دس) وَأَحْلَبَهُ مدد دینا۔
تَحَلَّبَ وَأَنْحَلَبَ۔ العَرَقُ
او والد مع پیمہ یا آنسو کا
بہر پڑنا۔ عَيْتَةُ۔ آنکھ کا
آنسو بہانا۔ قَمْلَةٌ۔ منہ کا
تھوک پکانا۔ رَالٌ لَّانَا۔
أَحْتَلَبَ وَاسْتَحْلَبَ۔ دودھ
نکالنا۔ احْتَلَبَ النَّاقَةُ
اونٹنی کا دودھ دوہنا۔
استَحْلَبَ الْقَوْمُ۔ قوم کا مدد
کے لیے جمع ہونا۔

الْحَلَبُ۔ مص۔ (وَالْحَلِيبُ) دودھ
برادودھ۔ کہتے ہیں۔ "شَرِبْتُ
حَلَبًا" میں نے تازہ دودھ
پیا۔ کھجور کی شراب۔ "حلب
الکرم وحلب العصير" شراب۔
کہتے ہیں۔ "ذَا قَوَّاهُ حَلَبُ امْرِئِهِ"
یعنی انھوں نے اپنے کام کا خمیازہ
بھگتا۔ و دَمَّ حَلِيبٌ تازہ
خون۔ کہا جاتا ہے۔ "ناقہ"
حلبی" رکبی (وَحَلْبَانَةٌ)
رُكْبَانَةٌ۔ دودھ دینے والی
اور سواری دینے والی اونٹنی۔

الْحَلْبَةُ ایک بار دوہنا۔ گھوڑوں
کی ایک دفعہ کی دوڑ۔ کہتے ہیں۔
"هو يركض في كل حلبه"
من حلبات المجد" وہ
بزرگی و شرافت کی ہر دوڑ میں ڈرتا
ہے۔ الْحَلْبَةُ۔ گھوڑے جو
دوڑانے کے لیے مختلف طرفوں
سے جمع کیے جائیں۔ ج۔ حَلْبَات
وَحَلَائِبُ۔

الْحَلْبَتَانِ۔ صبح و شام (ان دونوں
وقتوں میں دودھ دوہنے کی وجہ
سے ان کا یہ نام پڑا۔

الْحَلْبَةُ۔ میتی۔
الْحَلْبَةُ۔ بکریوں کا ایک حصہ جو ریوڑ
سے الگ ہو جائے۔

الْحَالِبُ۔ فَا۔ دودھ نکالنے والا۔
ج۔ حَلْبَةٌ۔

الْحَالِبَةُ۔ تھن کے ارد گرد کی رگیں
ج۔ حَوَالِبُ۔

حَوَالِبُ الْبَيْتِ۔ پانی کی ستونیں
یا سرین۔ اسی طرح حَوَالِبُ
الْعَيْنِ۔ یا۔ حَوَالِبُ الْأَنْفِ
وہ رگیں جن سے آنکھ کے آنسو یا

ناک کی ریزش نکلتی ہے۔
الْحَالِيَانِ۔ وہ دو رگیں جن سے پیشاب
گردہ اور مثانہ میں آتا ہے۔
الْحِلَابُ۔ دودھ دوہنے کا برتن۔
الْحَلَّابُ۔ بہت دوہنے والا۔
"يَوْمُ حَلَابٍ"۔ مناک دن۔
الْحَلُوبُ وَالْحَلُوبَةُ۔ من الابل
او الغنم۔ دودھ دینے والی
اونٹنی یا بکری۔ دودھ دوہتی ہوئی۔
ج۔ حُلْبٌ وَحَلَائِبُ۔
الْحَلَائِبُ۔ جماعتیں۔ کسی کے معاونین و
مددگار پچھرے بھائی۔

الْحَلُوبُ۔ کالا رنگ۔ کہا جاتا ہے
"أَسْوَدُ حَلُوبٍ" بہت کالا۔
الْحَلِيلَابُ۔ عشق پیچھے کی بیل۔
الْحَلَبُ وَالْحَلْبَانُ وَالْحَلْبَابُ
وَالْحَلُوبُ۔ نباتات کے نام۔
کہتے ہیں۔ شَاةٌ (تَحْلَابَةٌ
وَتَحْلَبَةٌ وَتَحْلِبَةٌ۔ و
تَحْلِبَةٌ وَتَحْلِبَةٌ) گیا بھن
ہونے سے پہلے دودھ دینے
والی بکری۔

الْمَحْلَبُ۔ دودھ دوہنے کا برتن۔
ج۔ مَحَالِبُ۔

الْمَحْلَبُ۔ دودھ دوہنے کی جگہ
ج۔ مَحَالِبُ۔ ایک درخت
جس کے بیج سے خوشبو حاصل کی
جاتی ہے۔

الْمَحْلِبُ۔ فَا۔ کہا جاتا ہے۔ خَلَانٌ
مَحْلَبٌ مَحْلَبٌ یعنی فلاں کے
اونٹوں نے اونٹ اونٹنیاں دیں
اونٹنیوں کا دودھ دوہتا ہے۔
اور اونٹنیوں کو پیچنے کے لیے لے
جاتا ہے۔ کسی کا وہ مددگار جو اس
کی قوم کا نہ ہو۔



حَلَّتْ (من) حَلَّتَا - الرأس - سر
 مَوْنَدْنَا - الصوف چڑے
 سے اون اکھڑنا - الدين
 قرص ادا کرنا - ظہور
 الخيل - چمٹ کے رہنا -
 بسلجہ - پانچانہ کرنا -
 الحلاتة - اون اکھڑتے وقت اس
 کا گرا ہوا حصہ -
 الاَحَلَّتْ - اکھڑے ہوئے بالوں یا
 اون والا - الحِلَّتْ يَحْجُ -
 اولہ - پالا -
 حَلَجَ (من) حَلَجَا - الحُبْزَة -
 روٹی کا بیلن سے گول کرنا - اور
 بڑھانا - فی المشی - آہستہ
 آہستہ چلنا - فی العدو
 دوڑنے میں لمبے لمبے قدم رکھنا -
 القوم ليلتھم قوم کرات
 کو چلنا - کہا جاتا ہے "بات
 القوم يحلجون ليلتھم"
 قوم رات بھر چلتی رہی -
 حَلَجَ القطن - روٹی دھن کر اس
 میں سے نولے نکالنا - صفت
 (حَلَجَ) صفت مفعولی -
 حَلِيجٌ (محلوج) - الحبل
 رسی بٹنا - الرجل بالعصا
 لاٹھی سے کسی کو مارنا - تحلج
 الحلوچ - بادل کا چمکنا -
 فی صدرہ - بات کا کھٹکنا -
 اِحْتَلَجَ - حَقَّه - حق لے لینا -
 الحَلِجَة والحَلِجَة - مسافت -
 الحَلَاجَة - دھنیے کا پیشہ -
 الحَلُوج - چکنے والا بادل -
 الحُلج بہت کھانے والے -
 الحُلج والمحلج - روٹی دھننے
 کا آلہ بیلن - ج - محاليج و

محاليج -
 المحلج وہ لکڑی جس پر چرخ گھومتی
 ہے -
 المحلج والمحلجة - وہ چیز جس
 پر روٹی دھنی جاتے -
 حَلَحَل - الشیء - ہلانا - ہٹانا -
 القوم - قوم کو ان کی جگہ سے
 ہٹانا - علیحدہ کرنا -
 تَحَلَّحَل - عن مکانہ - اپنی
 جگہ سے ہٹ جانا - حرکت کرنا -
 الحلاجل - اپنے قبیلہ کا سردار -
 بہار - کامل - ج - حلاجل
 (اور انہیں معافی میں مُحَلَّحَل
 و مُحَلَّحَل ہیں)
 حَلَزَن (من) حَلَزَا - الجلد والعود
 چمڑے یا لکڑی کو چھیننا -
 تَحَلَزَز - الشیء - باقی رہنا -
 القلب - دل کا دروند ہونا -
 - لِلْأَمْرِ - کسی امر کے لیے
 تیار ہونا - بالمكان - کسی
 جگہ اقامت کرنا -
 اِحْتَلَزَ - منہ حقہ - کسی سے
 اپنا حق لے لینا -
 الحِلَز - بخیل - بدخلق - پست قد
 - آلو - ایک قسم کا غلہ - واحد -
 (حِلَزَة)
 الحِلَزُون - ایک قسم کا آبی جانور -
 الحِلَزُونَة - فی عرف
 الحدا دین والتجارین -
 لوہاروں اور بڑھتیوں کی اصطلاح
 میں وہ سوراخ جس میں پیسیدار
 کیل گھومتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے
 اور الٹی پھرنے کے بغیر نہیں
 نکلتی شکل یا خط حِلَزُونِ
 وہ شکل یا خط جو گھومنے کی ہیئت

کاپیچدار ہوتا -
 حَلَسَ (من) حَلَسَا - البعير
 اونٹ کو ٹاٹ یا کبل سے ڈھانپنا
 - الرجل بالشیء - بہت
 حریص ہونا - السماء - آسمان
 کا لگاتار ہلکی بارش برسانا -
 حَلَسَ (س) حَلَسَا وَتَحَلَسَ -
 بالمكان - کسی جگہ جم کر رہنا -
 - لِلْأَمْرِ - کسی کام کے لیے
 جگر لگانا - کہا جاتا ہے "مَا
 تَحَلَسَ مِنْهُ شَيْئًا" یعنی اس کو
 اس میں سے کچھ نہیں ملا -
 اَحَلَسَ - الرجل - مفلس ہونا
 - فَلَانًا فِي الْبَيْعِ - خرید و
 فروخت میں کسی کو نقصان پہنچانا -
 - کسی سے عہد و میثاق
 کرنا - اَحَلَسَتِ السَّمَاءُ
 آسمان کا لگاتار ہلکی بارش
 برسانا - الارض - زمین کا
 سرسبز ہونا - اَحَلَسَهُ الْخَوْفُ
 خوف لازم کرنا -
 حَالَسَهُ - چمٹ جانا - لگ جانا - لازم
 ہونا - حَالَسَ الْبَعِيرَ -
 اونٹ کو ٹاٹ سے ڈھانپنا -
 اِحْلَسَ - سیاہی مائل سرخ ہونا -
 صفت (اَحْلَسَ) مَوْنَد
 حَلَسَاء
 اِسْتَحْلَسَتْ - الارض - زمین کا
 سرسبز ہونا - النبت - سبزہ
 کا زمین کو ڈھانپ لینا -
 اللیل - رات کا بہت تیرہ و
 تاریک ہونا - الخوف فَلَانًا
 خوف کا لازم رہنا -
 الحِلْسُ والحَلْس - ٹاٹ - ہروہ کپڑا



جو زمین یا پالان کے نیچے ڈالا جاتا ہے پروہ کپڑا جو قیمتی فرش کے نیچے گھر میں بچھایا جاتا ہے۔ ج۔ اَحْلَاس و حُلُوس و حِلْسَة۔
احلاس الخیل۔ وہ لوگ جو گھوڑوں پر ہی سوار رہیں۔ اور کہتے ہیں "فلان حلاس بیتہ"۔ فلاں ہمیشہ گھر ہی میں رہتا ہے۔ عرب کے نزدیک یہ ایک مذمت ہے کہ گویا وہ گھر ہی میں رہنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ "وہو حِلْسٌ من احلاس البلاد"۔ یہ مدح و ستائش کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی وہ صاحب عزت و قوت ہے۔ یا کہتے ہیں۔ "کونوا احلاس بیوتکم"۔ تم ہمیشہ گھر ہی میں رہو۔ —
"هذا الیس من احلاس فلان" یعنی یہ فلاں کا کفو نہیں ہے۔ "ورفضت کذا و نقصت احلاسہ" میں نے اس کو چھوڑ دیا۔
الحِلْس۔ عہد و میثاق۔ جوئے کا چوتھا تیر۔ سروا بہادر۔ ام حلاس گدھی۔
الحِلْس۔ عہد و پیمان۔
الحِلْس۔ بہادر۔ حریص جو اپنی جگہ سے نہ ٹلے۔ سیاہی مائل سرخ۔
الحُلُوس۔ حریص۔ لالچی۔ ارض (مجلس) وہ زمین جس کو گھنے سبزہ نے ٹاٹ کی طرح ڈھانپ لیا ہو۔
حَلَطَ (د) حَلَطًا۔ قسم کھانا۔ فی الامر۔ اصرار کرنا۔ اور

جلدی کرنا۔ غضبناک ہونا۔
حَلَطَ (س) حَلَطًا و اَحْتَلَطَ علیہ۔ کسی پر ناراض و غضبناک ہونا۔ منہ۔ کسی سے تنگ ہونا۔ شک جانا۔ زنج ہونا۔
اَحْلَطَ۔ بمعنی حَلَطَ — ۵۔
غضبناک کرنا۔ بالمکان اقامت کرنا۔ فی الیومین سرگرمی سے قسم کھانا۔
حَلَفَ (ض) حَلْفًا و حِلْفًا و حَلْفًا و حِلْفًا و حِلْفًا و حِلْفًا و حِلْفًا و حِلْفًا۔ باللہ۔ اللہ کی قسم کھانا۔
اَحْلَفَ و حَلَفَ و اَسْتَحْلَفَ۔ قسم دینا۔
حَالَفَ۔ مُحَالَفَۃً۔ معاہدہ کرنا۔ عہد و پیمان کرنا۔ حَالَفَ فلاںًا حَزَنَۃً۔ غم کا لازم ہونا۔ تَحَالَفُوا۔ باہم عہد و پیمان کرنا۔
الْحَلْفَ و الْحِلْفَ و الْأَحْلُوفَ قسم۔
الْحَلْف۔ مص۔ عہد و پیمان۔ دوستی وہ دوست جو اپنے دوست سے بیوفائی نہ کرنے کی قسم کھائے۔ ج۔ اَحْلَاف۔ کہتے ہیں۔ "فلان حلف کذا" یعنی فلاں اس سے جدا نہیں ہوتا۔
الحَلْفَاء۔ ایک قسم کی بوٹی جس کے اطراف کھجور کی شاخ کے مانند تیز ہوتے ہیں اور وہ پانی کے بہاؤ کی جگہ آگتی ہے۔ واحد (حَلْفَۃ و حَلْفَاء)۔
الحَلْفَاء۔ بہت پیچھے والی لونڈی۔ ج۔ حُلْف و حُلْف۔ ارض (حَلِیْقَۃ و مُحَلِیْقَۃ) وہ زمین

جس میں "حلفاء" بوٹی بہت ہو۔
الْحَلْفَاء۔ وہ جگہ جہاں حلفاء گھاس بہت اُگے۔
الْحَلْفَاء و الْحَلْفَۃ۔ بہت قسمیں کھانے والا۔
الحَلِیْف۔ عہد و پیمان کرنے والا۔ ساتھی۔ کہتے ہیں۔ "فلان حَلِیْف الجود"۔ فلاں بڑا فیاض و جود و بخشش والا ہے۔
"فلان حلیف اللسان"۔ فلاں چرب زبان اور فصیح ہے۔ ج۔ حَلْفَاء۔
المُحَلِیْف۔ شک کی چیز جس کو ثابث کرنے کے لیے قسم کی ضرورت پڑے کہا جاتا ہے۔ "هذا غلام حلف"۔ یہ ایسا لڑکا ہے جس کے اختلام میں شک ہے۔
حَلَقَ (ض) حَلَقًا و تَحَلَقًا۔ الراس۔ سر مونڈنا۔
حَلَقَ (د) حَلَقًا۔ الرجل۔ حلق پر مارنا۔ گلے پر ضرب لگانا۔
— الحوض۔ حوض بھرنا۔
الشیء۔ چھیلنا۔
السنة القوم۔ قحط سالی کا قوم کو مصیبت میں ڈالنا۔
صفت (حلق)۔ القوم بعضهم بعضا۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا۔
حَلَقَ (س) حَلَقًا۔ گلے میں شکایت ہونا۔
حَلَقَ — الراس۔ سر مونڈنا۔
— الطائر۔ پرندہ کا ہوا میں اڑ کر چکر لگانا۔ القمر چاند کے ارد گرد حلقہ پڑنا۔
الشیء۔ کسی شے کو حلقہ کے مانند



الْمَلَكَاءَ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْحُلُوكَ
ایک قسم کا جانور۔
حَلَمَدَن) حُلْمًا وَحُلْمًا — فی
نومہ۔ خواب دیکھنا۔ کتے ہیں۔
”حلمہ وحلمہ“ اس نے اس
کو خواب میں دیکھا۔ حلم
الصَّبِيُّ وَآحَلَمَ) لڑکے کا بالغ ہونا
(حُلْمًا) الجِلْد۔ چمڑے میں سے
کیڑے نکالنا۔
حَلَمَدَك) حِلْمًا۔ درگزر کرنا۔
بردار ہونا۔ صفت (حَلِيم)
جہ۔ حُلْمَاءُ وَآحَلَام۔ مؤنث
حَلِيمَة۔
حَلَمَدَس) حَلْمًا۔ الجِلْد۔
چمڑے کا خراب ہونا۔ اور اس میں
کیڑے پڑنا۔ صفت۔ (حَلِيم
وَحَلِيم)
حَلْمَة۔ تَحْلِيمًا وَحَلَامًا۔ بردار
بنانا۔ حَلَمَ الجِلْد۔ چمڑے
میں سے کیڑے نکالنا۔ القربة
مشک بھرنا۔
تَحَلَّمَ۔ بردار بننا۔ العِلْم۔
برداری سے کام لینا۔ الرجل
آدمی کا موٹا ہونا۔ تَحَلَمَت
القربة۔ مشک کا پانی سے بھرنا
تَحَالَّمَ۔ برداری شکف ظاہر کرنا۔
لَا تَحَلَّمُوا وَاحْتَلَمُوا۔ فی نومہ۔
خواب دیکھنا۔
العِلْم۔ میرا ہستی۔ برداری۔
کبھی جمالت و بے وقوفی کے مقابلہ
میں آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں: ”و
اَنْ سَفَاهَ الشَّيْخِ لَا حِلْمَ
بَعْدَهُ“ عقل۔ جہ آحلام و
حُلُوم۔ کہا جاتا ہے ”تَأْمُرُهُمْ
آحْلَامُهُمْ بِهَذَا“ یعنی ان کی

الْحُلُقَاقِ۔ نائی۔ حجام۔
الْحُلَاقَة۔ مونڈے ہوئے بال۔
الْحِلَاقَة۔ نائی کا پیشہ۔
الْحَالِقِ۔ فاجہ۔ حَلَقَة۔
من الجبال۔ اونچی چٹیل پہاڑ۔
کہا جاتا ہے ”جَاءَ مِنَ الْحَالِقِ“
وہ بلند جگہ سے آیا۔ ”دھوی
من حالق“ وہ اونچی جگہ سے
گرا۔ یعنی ہلاک ہو گیا۔
ضَرَعَ حَالِقٌ۔ دودھ سے بھرا
ہوا تھن۔ دودھ کی کمی کی وجہ سے
پیٹ سے چمٹا ہوا تھن۔ جہ۔
حَلَقَ وَحَوَالِقَ۔
الْحَالِقَة۔ الحالق کا مؤنث۔
موت۔ بری بات۔ سخت سال۔
جہ حَوَالِقَ۔
الْحَالِقُ۔ موت۔
الْحَالِقَة۔ من السُّيُوفِ او
الرجال۔ تیز تلوار۔ سخت آدمی
الْحَوَلَقِ وَالْحَيْلِقِ۔ بلا و مصیبت
الْحَوَلَقَة۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ۔ کہنا۔
الْحَيْلِقِ۔ مونڈا ہوا۔ کہا جاتا ہے۔
”شعر حلیق و لحیة حلیق“
مونڈا ہوا بال۔ مونڈی ہوئی داڑھی۔
جہ۔ (د حلق)
الْمُخَلَّقِ۔ اُسترہ۔
حَلَقَبَه۔ گلا کاٹنا۔
الْحَلَقُومَ۔ گلا۔ جہ۔ خَلَا قِيمَ۔
حَلِك (دس) حُلُوكَةً وَحَلَكًا وَ
حُلُوكًا وَآحُلُولَكَ وَاسْتَحَلَكَ
سخت سیاہ ہونا۔ صفت
(حَالِكٌ وَحَلِك)
الْحَلَكُ وَالْحَلَكَة۔ سخت سیاہی
الْحَلَكَة وَالْحَلَكَاءُ وَالْحُلَكَاءُ وَ

بَنَانًا۔ الاناء من الشراب۔
برتن کا بھرنا۔ الحوض
حوض کا خشک ہو جانا۔
عَيْنُ الْحَيَوَانِ۔ آنکھ کا دھنس
جانا۔ النجم۔ ستارہ کا بلند
ہونا۔ ضَرَعَ الناقَة۔
اونٹنی کا دودھ خشک ہو جانا۔
أَخْلَقَ۔ الاناء او الحوض۔ برتن
یا حوض کو بھرنا۔
تَحَلَّقَ۔ القوم۔ حلقہ بنا کر
بیٹھنا۔ القوم۔ چاند کا
تالہ میں آنا۔
اِخْتَلَقَ۔ الراس۔ سر مونڈنا۔
الْحَلَقُ۔ مص۔ گلا۔ جہ۔ أَخْلَقَ
وَحُلُوقَ وَحُلُقَ۔
حُلُوقِ الاسرجِ۔ زمین کی
تالیاں اور وادیاں۔ کتے ہیں۔
”اخذوا فی حُلُوقِ الطريق“
انہوں نے تنگ راستے اختیار کیے
الْحَلَقَة۔ برگول چیز۔ زرہ۔ رسی۔
جہ۔ حَلَقَ وَحَلَقَاتٍ وَ
حلقۃ القوم۔ قوم کا دائرہ۔
کہا جاتا ہے۔ ”سأله فی حلقته“
یعنی اس نے اس سے اس وقت
سوال کیا۔ جبکہ وہ اپنے طلباء کے
حلقہ میں گھرا ہوا تھا
حَلَقَة الْحَوِیْنِ۔ حوض کا بھرنا۔
حَلَقَة۔ الباب او القوم۔ دروازہ
کا حلقہ یا قوم کا دائرہ۔
الحلق۔ بادشاہ کی انگوٹھی۔ بہت مویشی۔
الْحَلِقُ۔ بے بالوں والا۔
الْحَلَقُ وَحَلَقَ۔ بنی علی الکسر
معدول از حَالِقَة۔ موت۔
الْحِلَاقِ۔ گلا۔
الْحَلَقُ وَالْحَوِیْنِ۔ حلق کا درد۔



عقلیں ان کو اس کا حکم دیتی ہیں۔
 الحَلَم۔ مص۔ خواب۔ ج۔ اَحْلَاه
 کہا جاتا ہے۔ "هَذِهِ اَحْلَامُ نَاثِمٍ"
 یعنی یہ چھوٹی آرزوئیں۔
 الْحَلَمَةُ۔ سرپستان۔ چڑے کا کڑا
 ج۔ حَلَمَ۔
 الْحَلِيم۔ خدا تعالیٰ کے اسمائے حسنی
 میں سے ایک اسمِ موٹائی کی چربی۔
 التَّحْلِيمَةُ۔ بہت کپڑوں والا۔ ج
 تَحَالِم۔
 حَلَادَن، وَحَلَوْدَن، وَحَلِيَّ
 (س)، حَلَاوَةٌ وَحُلُوَانًا۔
 میٹھا ہونا۔ الفاکمۃ۔
 پھل کا پکنا۔ حلالہ الشیء
 لذیذ ہونا۔ صفت (حُلُوْ)۔
 کہا جاتا ہے "حلی فی عینی و
 بعینی" میری آنکھوں میں وہ بھلا
 معلوم ہوا۔ حَلَامَنہ بخیر
 کسی سے بھلائی وغیرہ پانا۔
 حَلَاةَ (ن)، حَلَوًا وَحُلُوَانًا۔
 کچھ یا سب مہر کی وصولی کی شرط
 پر اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کرنا۔
 وحلاہ کذا ادبکذا۔ دینا
 کہتے ہیں۔ "حَلَاةَ حُلُوَانَه" اس
 نے اس کو عوض و بدلہ دیا۔
 (و۔ وحلی، الشیء (تحلیۃ)،
 شیریں بنانا۔
 حَالِي۔ مُخَالَاةٌ۔ الرجل۔ خوش
 طبعی کرنا۔
 اَحْلَاةٌ۔ اَحْلَاءٌ۔ کسی شے کو میٹھا
 پانا یا کرنا۔ کہتے ہیں "مَا يُمَرُّ
 وَلَا يُحْلِي" یعنی وہ کڑوی میٹھی
 کوئی بات نہیں کرتا۔ یا اچھا برا
 کوئی کام نہیں کرتا۔
 تَحَلَّتْ۔ الْمَرْأَةُ۔ عورت کا زیور

پہننا۔ کہا جاتا ہے "تَحَلَّتْ فُلَانٌ"
 بما لیس فیہ۔ یعنی فلاں نے
 خود کو ایسی چیزوں سے آراستہ
 کیا کہ جو اس کے اندر نہیں ہیں۔
 تَحَلَّتْ وَاحْلُوْلِي وَاسْتَحَلَّتْ۔
 الشیء کسی شے کو شیریں پانا۔
 — وَاحْلُوْلِي الشیء۔ چیز کا
 میٹھا ہونا۔
 تَحَالِي۔ مٹھاس ظاہر کرنا۔
 الْحُلُوْا میٹھا۔ شیریں۔ خوش مزہ
 لذیذ۔ خوبصورت۔
 الْحُلُوَان۔ دلال کا بہن کی اجرت۔
 عطیہ۔ مہر۔
 الْحَلَاةُ وَالْحَلَاوَةُ وَالْحَلَادَاءُ
 وَالْحَلَاوِي۔ مِنْ الْقَفَا
 گدی کا درمیانی حصہ۔ ج۔ حَلَاوِي
 الْحَلَوَاءُ وَالْحَلَوِي۔ حلوا۔ میٹھا پھل۔
 ج۔ حَلَاوِي وَدَالْحَلَوَانِي (ن)
 حلوانے والا یا بیچنے والا۔
 الْحَلَو۔ مِنَ الرِّجَالِ۔ دیکھنے میں
 اچھا لگنے والا۔
 الْحَلِي۔ لذیذ۔ شیریں۔ نَاقَةٌ
 حَلِيَّةٌ۔ پوری حلاوت والی۔
 حَلِي (ض) حَلِيًّا۔ الْمَرْأَةُ۔
 عورت کے لیے زیور بنانا۔ عورت
 کو آراستہ کرنا۔ سنوارنا۔
 حَلِيَّت (س) حَلِيًّا۔ الْمَرْأَةُ
 عورت کا زیور پہننا۔ صفت۔
 (حَالٍ وَحَالِيَّة) ج۔ حَوَالٍ
 کہا جاتا ہے "نَتَجَرَّةٌ حَالِيَّةٌ"
 پتوں والا اور پھل دار درخت
 حلی منہ خیراً کسی سے خیر و
 منفعت پانا۔
 حَلِي تَحْلِيَّةٌ۔ الْمَرْأَةُ۔ عورت کو
 زیور پہننا۔ یا اس کے لیے زیور

بنانا۔ وَحَلِي الشیء۔ چیز کو
 زینت دینا۔
 تَحَلَّتْ۔ مَزِينٌ وَآرَاسْتَهُ ہونا۔ زیور پہننا۔
 الْحَلِي۔ وہ پھنسیاں جو بچوں کے منہ
 میں نکلتی ہیں۔
 الْحَلِي۔ ج۔ حَلِي وَحَلِيَّ۔ وَر۔
 الْحَلِيَّة (ج۔ حَلِي وَحَلِيَّ۔
 (خلاف قیاس) زیور۔
 حَلِيَّةُ الْاِنْسَانِ۔ انسان کا
 رنگ و روپ اور ظاہری شکل و
 صورت۔
 الْحَلِي۔ خشک۔
 حَقْدَن، حَقًّا۔ التَّنَوُّس۔ تنور کو
 گرم کرنا۔ الشَّمَمَةُ۔ چربی
 پگھلانا۔ الْمَاءُ۔ پانی گرم کرنا
 — الْاَسْتِحَالِ۔ کوچ جلدی
 کرنا۔ حَقَّةُ اللّٰہِ لہ کذا۔
 مقدر کرنا۔ الْاَمْرُ فُلَانًا۔
 کسی کو غم میں ڈالنا۔ کہتے ہیں۔
 "حَقْمَ حَقْمَه" اس نے اس کی
 طرح قصد کیا۔
 حَقْمَ۔ الْاَمْرُ۔ کسی امر کا فیصلہ کیا
 جانا۔ الشیء۔ قریب ہونا
 — الرَّجُلُ۔ آدمی کا بخار میں
 مبتلا ہونا۔ لہ کذا۔ مقدر
 کیا جانا۔
 حَقْمَ (س) حَقْمًا۔ کالامونا۔ سیاہ
 ہونا۔ الْمَاءُ۔ پانی کا گرم ہونا۔
 حَقْمَ۔ الْغُلَامُ لَوْنًا۔ کا
 سبز والا ہونا۔ الرَّاسُ۔ سر
 پر مونڈنے کے بعد بال نکلنا۔
 الْمَكَانُ۔ کسی جگہ پر سبزہ اگنا
 — الشیء۔ کالا کرنا۔
 الْمَاءُ۔ گرم کرنا۔ الرَّجُلُ
 کسی کا کوئلہ سے منہ کالا کرنا۔



المراة - عورت کو طلاق کے بعد
متعہ کے کپڑے دینا۔
آحَمَّہ - اللہ - بخار میں مبتلا کرنا۔
— آحَمَّہ الشَّیْءُ - قریب ہونا۔
— المکانُ - کسی جگہ بخار بہت
پھیل جانا۔ الماءُ - گرم کرنا
— اللہُ لہ کذا - مقدر کرنا۔
— الشَّیْءُ - کالا کرنا۔
— الامرُ فلاناً - غم میں ڈالنا۔
تَحَمَّمَ - سیاہ ہونا۔
اِخْتَمَ - فکر مند ہونا۔ غم کی وجہ سے
نیند نہ کرنا۔ العینُ - بغیر
درو کے بیدار رہنا۔
اِسْتَحَمَ - پانی سے نہانا۔ حمام میں
داخل ہونا۔ پسینہ والا ہونا۔
الحَمَّ - مص - حَمَّ الظہیرۃ -
دوپہر کے وقت شدت کی گرمی۔
کتے ہیں۔ مالہ حَمَّ عن
ذَکْ اومنه اس کے لیے
اس سے کوئی چارہ نہیں۔
حَمَّ الشَّیْءُ - و (حَمَّہ) چیز کا بڑا حصہ۔
الحَمَّی - بخار۔ ج۔ حَمَّیَّات
الحَمَّة - گرم پانی کا چشمہ۔
الحَمَّة - سیاہی۔ سیاہی و سبزی
کے درمیان رنگ۔ بخار۔ مقدر
میں لکھی ہوئی اور فیصل شدہ چیز۔
اور — حَمَّةُ الفراق - اسی سے
ہے کہ کتے ہیں "عجلت بنا دیکھ
حَمَّةُ الفراق" یعنی تقدیر میں
لکھے ہوئے فراق نے تمہاری
مجلس کے ساتھ جلدی کی۔ ج۔
حَمَّہ و حَمَّام۔
الحُمَّ - حُمَّة - کی جمع - کوئلہ۔ راکھ
آگ میں جلی ہوئی ہر شے۔ واحد
(حُمَّة)

الحَمَّة - موت۔ پسینہ۔
الحَمَّام - کبوتر۔ واحد (حَمَامَة)
کہا گیا ہے کہ حَمَامَة مذکر و
مونث ہر دو کے لیے مستعمل ہوتا
ہے کیونکہ اس میں تاء تانیث کی
نہیں بلکہ وحدت کے لیے ہے۔
اور بہت دفعہ حمام کا اطلاق
مفرد پر بھی کرتے ہیں۔ ج۔
حَمَائِم و حَمَامَات -
حَمَامُ الزَّاجِلِ او الزَّجَال -
نامہ برکبوتر۔ ساق الحمام
ورعی الحمام۔ دو قسم کی گھاس
کے نام۔ بیض الحمام۔ ایک
بڑے دانہ والا انگور۔
عنق الحمام۔ ایک قسم کا رنگ
جو سرخ و نیلے رنگ کے بیچ میں
ہوتا ہے۔
الحَمَّام - موت۔
الحَمَّام - گھوڑوں کا بخار۔ شریف سردار
الحَمَّامی - ایک قسم کی گھاس۔ چمڑے
کی سرخی۔
الحَمَّام - حَمَّام - یہ زیادہ تر مونث
ہی مستعمل ہے۔ ج۔ حَمَامَات -
الحَمَّامی - حمام کا مالک۔ حمام کا
نگبان۔
الحَامَّة - انسان کے خاص لوگ
مثلاً اہل و عیال وغیرہ۔ عمدہ
اونٹ۔
الحَمِیْم - قریبی عزیز و رشتہ دار۔
دوست۔ ج۔ اِحْماء - گرم پانی۔
ٹھنڈا پانی۔ چنگاری جس سے دھونی
دی جائے۔ ج حَمَائِم —
الحَمِیْم - گرمی۔ پسینہ۔ سخت
گرمی کے بعد بارش۔ کتے ہیں۔
”ہو حمیم بالحاجة“ وہ اپنی

حاجت پر عاشق ہے۔
الحَمِیْمَة - حَمِیْم کا مونث۔ گرم پانی۔
گرم دودھ۔ عمدہ نسلی اونٹ۔
الْأَحْم - بہت خاص۔ بہت قریبی۔
سیاہ۔ سفید دند، پھل نہ
رکھنے والا تیر۔ ج۔ حَمَّہ
الْحَمَّہ - پانی گرم کرنے کا برتن۔
المُحَمَّہ - قریب۔ نزدیک۔
المُحَمَّام - ثابت۔
المَحْمُوم - بخار والا۔ تقدیر میں لکھا ہوا۔
کہا جاتا ہے ”نزل به القضاء
المحموم۔ اس پر قضائے مقدر
کا ظہور ہوا۔ جس طرح القضاء
المَحْمُوم - بولا جاتا ہے۔
المُسْتَحَم - نہانے کی جگہ۔
البَحْمُوم - سیاہ۔ دھواں۔
حَمَّاء (ف) حَمَّاء - البئْر - کنویں
سے کچھ نکالنا۔
حَبَّی (س) حَمَّاء و حَمَّاء - الماءُ
پانی میں کچھ ملا ہوا ہونا۔ صفت
(حَبَّی)
أَحَمَّاء - البئْر - کنویں میں کچھ ڈالنا۔
الْحَمَّاء و الْحَمَّاء - الْحَمَّاء و الْحَمَّاء
بغیر ہمزہ کے۔ عورت کا خسر۔ دیور
جیٹھ وغیرہ۔
الْحَمَّاء و الْحَمَّاء - کچھ۔
حَبَّی (س) حَمَّاء - الجَوْش - وغیرہ۔
اخروٹ وغیرہ کا خراب ہونا۔
حَمَّتْ (د) حَمَّوْتَة - الیوم -
دن کا بہت گرم ہونا۔
تَحَمَّتْ - اللونُ او الطعمُ -
رنگ یا مزہ کا صاف اور خالص ہونا
الْحَمَّتْ - مص۔ یومُ حَمَّتْ - سخت
گرم دن۔ تہد (حَمَّتْ و حَامَّتْ)
نہایت شیریں کھجور۔



الْحَمِيَّةُ - مِنَ اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ خالص و صاف رنگ یا مزہ۔
کتے ہیں۔ "تمر حمیت و غسل حمیت" خوش رنگ کھجور۔
خالص شد۔ غصہ حمیت سخت غصہ۔

حَمَّيْتُ - الْعَيْنُ. آنکھ کا گڑھے میں بیٹھنا۔ حَمَّجَ الْوَجْهَ غصہ وغیرہ کی وجہ سے چہرہ کا رنگ بدلنا۔

حَمَّجَ - الْبَيْتَ - تیز نظر سے دیکھنا۔ عَيْنَهُ - گھور کر دیکھنا۔ حَمَّحَهُ وَتَحَمَّحَهُ - الْبُرْذُونُ اَوِ الْفَرْسُ - گھوڑے کا ہنہانا تَحَمَّحَهُ - سیاہ ہونا۔

الْحَمَّاجِيمُ - پودینہ مفرد (حَمَّاجِيَّة) الْجَمْعُ وَالْحَمُّحُ - ایک قسم کا پرندہ۔ گاؤ زبان۔ واحد (حَمُّحَةٌ - یا - حُمُّحَةٌ)

حَمْدَةُ (س) حَمْدًا وَمَحْمَدًا وَمَحْمَدًا وَمَحْمَدَةً وَفَحْمَدَةً - تعریف کرنا - ہ دینا - الشَّيْءُ - تعریف والا ہونا۔ کہا جاتا ہے حمداتُ إِلَيْكَ اللَّهُ - یعنی تمہارے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ یا تمہارا شکر یہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بھی شکر بجالاتا ہوں۔

حَمْدَ - اللَّهُ - خدا تعالیٰ کی بار بار تعریف کرنا اور الْحَمْدُ لِلَّهِ زبان پر لانا۔

أَحْمَدُ - قابل تعریف و ستائش کام کرنا - الشَّيْءُ - لائق ستائش ہونا - الشَّيْءُ - مستحق تعریف

پانا - کسی کے فعل پر راضی ہونا - کسی کا مستحق تعریف ظاہر ہونا۔

تَحَمَّدَ - بِالشَّيْءِ عَلَى فُلَانٍ - کسی پر احسان جتنا۔ کہا جاتا ہے۔ "أَنَّهُ يَتَحَمَّلُ النَّاسَ بِفَضْلِهِ" یعنی لوگوں کے سامنے اپنا قابل تعریف ہونا ظاہر کرتا ہے۔

أَلْحَمْدُ - مص - تعریف۔ تعریف کیا ہوا کہا جاتا ہے۔ "رَجُلٌ حَمْدٌ وَامْرَأَةٌ حَمْدَةٌ" تعریف کیا ہوا مرد اور تعریف کی ہوئی عورت۔

حَمَادٌ - لَمْ يَعْنِ حَمْدَ اللَّهِ - اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔

الْحَمَادُ - غایت۔ انتہائی کوشش۔ کہا جاتا ہے۔ "حَمَادُكَ اَوْ حَمَادُكَ تَفْعَلُ كَذَا" تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔

الْحَمَادُ وَالْحَمْدَةُ - بہت تعریف کرنے والا۔

الْمَحْمَدَةُ - قابل تعریف کام۔ ج مَحَامِدٌ -

الْمَحْمَدُ - بہت عمدہ خصلتوں والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف۔ الْحَبِيدُ وَالْمَحْمُودُ - تعریف کرنے والا۔ تعریف کیا ہوا۔ مؤنث (حميدة -)

حَمْدَنَ (س) حَمْدًا - کھال کھرچنا۔ الشَّاةُ - بکری کی کھال اتارنا۔ الرَّاسُ - سر مونڈنا۔

حَمْرٌ (س) حَمْرًا - الْفَرْسُ گھوڑے کا بد معنی والا ہونا۔ بدبودار منہ والا ہونا۔ صفت (حَمْرٌ) - الرَّجُلُ - آدمی کا غصہ سے

بھڑک اٹھنا۔ حَمْرٌ - الْجِلْدُ - چمڑے کو خراب رنگنا - الشَّيْءُ - کسی چیز کو سرخ رنگ سے رنگنا - کسی کو گدھا کہنا۔

أَحْمَرٌ - سرخ بچہ والا ہونا - الدابة - جانور کو چارہ دینا۔ یہاں تک کہ منہ بدبودار ہو جائے۔

أَحْمَرٌ - أَحْمَرًا سَا - سرخ ہونا۔ أَحْمَرًا أَحْمَرًا - بدتر سرخ ہونا۔ أَحْمَرٌ - مَا عَلَى الْجِلْدِ - کھرچا جانا۔ الْحَمْرُ - ایک قسم کی رال جس کو عام لوگ الْحَمْرُ - کہتے ہیں۔ (-)

وَالْحَمْرُ - ایک سرخ رنگ کا پرندہ واحد (حَمْرَةٌ وَحَمْرَةٌ)

الْحَمْرَةُ - سرخ رنگ۔ ایک قسم کی دہائی بیماری جس میں بخار آتا ہے اور بدن پر سرخ رنگ کے دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔

حَشِيَّةُ الْحَمْرَةِ - ایک قسم کا زہر پلا پودا۔

الْحَبَارُ - گدھا۔ یہ اہل پالتو بھی ہوتا ہے اور وحشی جنگلی بھی۔ اسی لیے جنگلی کو حمار وحش اور حمار الوحش اور الحمار الوحشی کہتے ہیں۔ ج حَمِيرٌ وَآخِيَرَةٌ - وَحْمُرٌ وَحُمُورٌ وَحُمَرَاتٌ

مؤنث حَمَارَةٌ - ج حَمَائِرُ - حَمَارَةُ الْقَدَمِ - پشت قدم - اذن الحمار وقشاة الحمار

ایک قسم کے دوپوڑے - حمار الزرد - جنگلی سفید رنگ سفید دھاریوں والا گدھا۔

الْحَمَارَةُ - گرمی کی تیزی۔ ج - حَمَارٌ - الْحَمَارَةُ - گدھے والے واحد حَمَارٌ -



میسے جَمَّال بَعَال - دوغلا گھوڑا۔

الْأَحْمَر - سرخ رنگ والا۔ ج۔
أَحْمَر - سرخ رنگ میں رنگا ہوا۔ ج۔ حُمُر و حُمُرَان - سونا، زعفران، گوشت، شراب۔ کتے ہیں: نَحْنُ مِنْ أَهْلِ الْأَسْوَدِینَ لَا مِنْ أَهْلِ الْأَحْمَرِینَ یعنی ہم کھجور و پانی والے ہیں نہ گوشت و شراب والے۔
— الموت الأحمر - قتل۔
خونریزی۔ یا سخت موت سے کنایہ ہے۔

الْحُمُرَاء - الْأَحْمَر کا مؤنث۔ سخت سال۔ گرمی کی تیزی۔ الْحُمُرَاء یا - القلعة الْحُمُرَاء - غناطہ کا ایک مشہور تاریخی یادگار قلعہ جس کے اندر ایک عجیب الصنعت محل ہے۔

الْحُمُرَاء - تین لکڑیاں، جن کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر اس پر دودھ کا مشیکزہ یا پانی کی صراحی وغیرہ رکھتے ہیں۔ اور اس کو الْحَمَائِر بھی کہتے ہیں۔

الْأَحْمَرِی - بہت سرخ۔
الْحَمْر - گرمی کی سخت تیزی۔ بُرَا شَخْصٌ - غیثٌ حَمِئٌ - ایسی تیز بارش جو زمین کو پھیل ڈالے۔

الْحُمْرَة - ایک پرندہ۔
الْحَمْر - چڑا پھیلنے کا آلہ۔ کنجوس۔ آدمی۔ ج۔ حَمَاص -

الْحَمْر - دوغلا گھوڑا۔
الْحَمْرُون - سرخ۔ ایک قسم کا پرندہ۔ بعض کے نزدیک جنگلی گدھا۔ دگور خر، حَمْر (ض) حَمْرَاء - الخردل اللسان

رائی کا زبان میں چرپرہٹ پیدا کرنا۔ — الشفة - پھری کو تیز کرنا۔
حَمْر (ك) حَمَازَة - سخت ہونا۔
— الشراب - چرپرہٹ ڈالنے والی ہونا۔
الْحَامِز - فَا - حَامِزُ الْفُوَاد - خوش مزاج خوش طبع۔ تیز فہم۔
الْحَمِيز - سخت۔ ذکی۔ تیز فہم۔ ظریف۔
حَمْسَة (ض) حَمْسَاء - مذہب یا لڑائی میں مضبوط ہونا۔ دلیر ہونا۔ صفت (حَمِئٌ) - حَمِئٌ الوعی گھسان کی لڑائی ہونا۔
— الامر - کسی امر کا سخت ہونا۔

حَمْسَة (ض) حَمْسَاء - غضبناک کرنا۔ — اللحمہ گوشت بھونا حَمِئ (ك) حَمَاسَة و حَمِئ (ض) حَمْسَاء - دلیر و بہادر ہونا۔
حَمْسَة و آخَمْسَة - جوش دانا۔
غضبناک کرنا۔ — الداء و نحوه - دوا وغیرہ کو نیم گرم کرنا۔
تَحَمِئ - جوش میں آنا۔ غضبناک ہونا۔
نا فرمائی کرنا۔ سخت کرنا۔

إِحْمِئ - جوش میں آنا۔
إِحْقِئ الْقِرْنَان - باہم جنگ قتال کرنا۔

تَحَاص - القوم - ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا۔
الْحَمَاس - سختی۔ ممانعت۔ جنگ۔
الْحَمَاسَة - معاملہ میں سختی۔ بہادری۔
الْأَحْمَس - مذہب و جنگ میں سخت بہادر۔ مؤنث حَمْسَاء - ج۔ حَمِئ و آحَامِئ -
سنة حَمْسَاء - سخت سال

وَسُنُون آحَامِئ - بہت سے سخت سال۔
الْحَمِئ - سخت جگہیں۔
الْحَمِئِئ - بہادر۔ سخت۔ تنور۔
الْحَمِئِئَة - بھونا ہوا۔
حَمْسَة (ض) حَمْسَاء - غضبناک کرنا جوش دانا۔
حَمِئ - الشیء - جمع کرنا۔
القوم - غصہ سے چلانا۔
حَمِئِئ (ض) و حَمِئِئ (ك) حَمِئِئَة - الساق پٹلی کا باریک ہونا۔
حَمِئ (ض) حَمْسَاء و حَمِئِئ و تَحَمِئِئ و اِحْتَمِئِئ -
وَ اِسْتَحَمِئِئ - غضبناک ہونا۔
حَمِئ (ض) حَمْسَاء و حَمِئِئ -
— الرجل - آدمی کا باریک پنڈلیوں والا ہونا۔ صفت (حَمِئِئ و حَمِئِئ و اِحْتَمِئِئ) ج۔ حَمِئِئ و حَمِئِئ - کہا جاتا ہے: "رجال حَمِئِئ السُّوق" باریک پنڈلیوں والے لوگ۔
— و سوق حَمِئِئ - باریک پنڈلیاں۔
حَمِئِئ - غصہ دانا۔ جوش دانا۔
— حَمِئِئ الشیء - جمع کرنا۔
— الشحمة - چربی کو اس قدر پگھلانا کہ جلنے کے قریب ہو جائے۔
أَحْمِئِئ - غضبناک کرنا۔
أَحْمِئِئ النَّاس - آگ میں ایندھن ڈال کر اس کو بھڑکانا۔
القدس - ہانڈی کے نیچے بہت ایندھن لگانا۔ یہاں تک کہ ہانڈی جوش میں آجائے۔
— الحرب - جنگ بھڑکانا

الحمیش۔ پگھلی ہوئی چربی۔
 حَمَضٌ (ن) حَمَضًا وَحُمُوضًا۔
 - الجرح۔ زخم کی سوجن اترنا۔
 صفت (حَمِئَصٌ)۔
 الورم۔ ورم اترنا۔
 الأرجوحة۔ جھولے کا ٹھہر
 جانا۔ الدابة۔ جانور کا
 پسینہ سوکھ جانا۔
 حَمَضٌ - الحَبَد - دانہ بھونا۔
 تَحَمَّضَ - الرجلُ - سَمُنًا۔
 - اللحم - گوشت کا خشک
 ہونا۔
 اِنْحَمَصَ - الورم - ورم کم ہونا۔
 - منه - سکڑنا۔ لاغر ہونا۔
 الحَمَضُ والحَمِئَصُ - چنا۔ واحد
 (حَمِئَصَةٌ وَحَمَضَةٌ)
 الحَمِئَصُ - بھونا ہوا۔
 الحَمِئَصَةُ - دانے وغیرہ بھوننے کا
 آلہ - ۵ - (لغت عوام)
 حَمَضٌ (ض) حَمَضًا - وَحَمِئَصٌ
 (س) حَمَضًا وَحَمِئَصٌ (ك) حُمُوضَةٌ
 کھا ہونا۔
 حَمَضٌ (ن) حَمَضًا - عنده۔
 ناپسند کرنا۔ بد۔ خواہش کرنا
 - وَأَحْمَضَ وَحَمَّضَ
 الجمل - اونٹ کا ٹکین وکڑوے
 پودے چرنا۔
 حَمَضٌ وَأَحْمَضٌ - الابل۔
 اونٹ کو ٹکین وکڑوے پودے
 کھلانا۔ چرانا۔ کہا جاتا ہے۔
 "حَمَضٌ لَنَا فِي الْقَرْيَةِ"
 اس نے ہماری تھوڑی سی گمانی کی۔
 حَمَضٌ وَأَحْمَضٌ - الشئ - کھا
 کرنا۔ الشئ عنده۔ پھیر دینا
 أَحْمَضٌ - المكان - کسی جگہ کا بہت

ٹکین اور کڑوے درختوں والی ہونا
 صفت۔ (مُحَمِضٌ)
 تَحَمَّضَ - الرجلُ - کسی کا ایک
 چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل
 ہونا۔
 الحَامِضُ - فَا - کہا جاتا ہے: هُوَ
 حَامِضُ الْفَوَادِ - وہ بگڑے
 ہوئے اور خراب دل کا آدمی ہے۔
 "وَحَامِضُ الرُّتَبَيْنِ" کڑوے
 سانس والا۔
 الحَامِضَةُ - الحَامِضُ کا مؤنث۔
 کسی چیز کی خواہش۔ معدہ میں کسی
 چیز کا خراب و فاسد ہو جانا۔
 الحَمِضُ - ٹکین و تلخ پودا۔ واحد
 (حَمِئَصَةٌ) ج - حُمُوضٌ۔
 الحَمِئَصَةُ - کھانے کی خواہش۔
 کہا جاتا ہے: "فَوَادِ حَمِضٌ وَ
 نَفْسٌ حَمِئَصَةٌ" یعنی سنتے ہی
 کسی چیز سے نفرت کرنے والا دل
 یا نفس۔
 الحَمَاضُ - کاسنی سے مشابہ پتے رکھنے
 والی ایک گھاس۔ یہ ترش بھی
 ہوتی ہے اور کڑوی بھی۔ اس کو
 حَمِئَصَةٌ - بھی کہتے ہیں۔ واحد
 (حَمَاضَةٌ)
 حَمَاضُ الْكَبَّاد - اترخ کا گودا۔
 الإَحْمَاضُ - مص - پسندیدہ بات
 میں لگنا۔ دل چاہی کی گفتگو چھیڑنا۔
 سنجیدگی چھوڑ کر تمسخر کی طرف
 منتقل ہونا۔
 الحَمِئَصَةُ - ج حَمِضٌ وَدَالِ الْمُحَمَّضِ
 وَدَالِ الْمُحَمَّضِ - ٹکین وکڑوے پودے
 بکثرت اگانے والی زمین۔
 الْمُسْتَحَمِضُ - مِنَ اللَّبَنِ - دیر
 میں جبنے والا دودھ۔

حَمَطَه (ض) حَمَطًا - چھلکا اترنا۔
 حَمَطٌ - انگرہ۔ انگرہ پر درخت
 سے سایہ کرنا۔ الشئ -
 چھوٹا کرنا۔ الرجلُ - کسی
 کو خفیف سا کرنا۔ اور اسی سے یہ
 مثل مشہور ہے: "إِذَا صَدَرَتْ
 فَلَا تَحْمِطُ" جب مارو تو اچھی
 طرح مارو۔ کیونکہ کم مارنا ادب
 نہیں دیتا۔
 الحَمَاطَةُ - طلق میں سوزش و جلن۔
 انجیر سے مشابہ ایک درخت۔
 دل کا نقطہ۔ بعض کے نزدیک
 دل کا خون۔ ج حَمَاطًا وَحَمَاطًا۔
 حَمِئٌ (س) وَحَمِئٌ (ك) حَمِئًا۔
 وَحَمِئًا وَحَمَاقَةٌ - بیوقوف
 ہونا۔ صفت (أَحْمَقُ) مؤنث
 حَمَقَاءُ ج - حُمَقٌ وَحُمَقٌ
 وَحُمَقِي وَحِمَاقٌ وَحِمَاقِي۔
 وَحِمَاقِي۔
 حَمَقَّةٌ - کسی کو بیوقوف کہنا۔
 أَحْمَقَةٌ - کسی کو احمق پانا۔ احمق
 المرأة - عورت کا بے وقوف بچہ
 بننا۔ صفت (أَحْمَقٌ وَحَمِئَةٌ)
 حَامِقَةٌ - بیوقوفی پر مدد دینا۔
 تَحَامَقٌ وَتَحَمَّقٌ - بتکلف احمق
 بننا۔
 اِنْحَمَقَ - بیوقوف ہونا۔ السوقُ
 بازار کا ٹھنڈا پڑنا۔ الثوبُ
 کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔
 اِسْتَحَمَقَ - بیوقوف ہونا۔ ۵
 کسی کو بیوقوف شمار کرنا۔
 الحُمَقُ - مص - عقل کی کمی اور خرابی
 بیوقوفی۔ شراب - نومة الحُمَقِ۔
 ظہر کے بعد کی نیند۔
 الحَمِيقُ - بیوقوف۔ کم دارمی والا۔

الْحَمَّاقُ وَالْحَمَّاقُ وَالْحَمِيقُ
وَالْحَمِيقُ وَالْحَمِيقَاءُ -
چھپک کے مشابہ ایک بیماری۔
اُکڑا اکڑا۔

الْبَقْلَةُ الْحَمَقَاءُ وَبَقْلَةُ الْحَمَقَاءِ
خرفہ کا ساگ۔
الْحَمُوقَةُ وَالْحَمِيقَةُ وَالْأُحْمُوقَةُ -
بہت بیوقوف۔

الْحَمِيقَاتُ - وہ راتیں جن میں اول سے
آخر تک چاند فی رہے۔

حَمَلٌ (مَنْ) حَمَلًا وَحُمَلَانًا -
الشیءُ علی ظہرہ - کسی شے کو
اپنی پیٹھ پر اٹھانا - الغَضَبُ
غصہ ظاہر کرنا - علی نفسه
فی السیر - چلنے میں مشقت
برداشت کرنا۔

حَمَلَهُ - علی الامر - کسی کو کسی کام پر
بھڑکانا۔ اُکسانا - حمل عنہ
بردار ہونا - الشیءُ علی الآخر
ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر لگانا۔
- المرأة - عورت کا حاملہ
ہونا - الشجرة - درخت کا
بار آور ہونا - القرآن - قرآن
حفظ کرنا - العلم - روایت
کرنا۔ (حَمَلَةً) فی
الحرب علیہم - حملہ آور ہونا۔
(حَمَالَةً) بہ - کسی چیز
کا ضامن ہونا۔ ذمہ دار ہونا۔

حَمَلَهُ وَأَحْمَلَهُ - الجمل - بوجھ
اٹھانے میں کسی کی مدد کرنا۔
حَمَلَهُ تَحْمِيلًا وَحَمَالًا - الشیءُ -
اٹھوانا۔

تَحْمَلَهُ تَحْمَلًا وَتَحْمَالًا - اٹھانا۔
- الامر - برداشت کرنا
- القوم - کورچ کرنا -

الرجل - بہادر بننا۔
تَحَامَلَ - فی الامر وبالامر -
تکلیف دہ بات اپنے ذمہ لینا۔
- علی فلاں - کسی پر ظلم کرنا
اور برداشت سے نادم کام کی
تکلیف دینا - عنہ - اعراض
کرنا - الیہ - متوجہ ہونا۔
- الشیخُ فی مشیہ - چلنے
میں گراں بار ہونا - علی
نفسہ - باوجود مشقت کے
برداشت کرنا۔

اِنْحَمَلَ - علیہ - اکسایا جانا
اِحْتَمَلَ - الشیءُ - اٹھانا -
الامر - کسی امر کو صبر سے
برداشت کرنا - ما کان
منہ - معاف کرنا۔ درگزر کرنا۔
چشم پوشی کرنا - الصنیعة
کسی نیک سلوک پر شکریہ ادا کرنا۔
اُحْتَمَلَ - غضبناک ہونا -
لونه - رنگ بدلنا۔

اِسْتَحْمَلَ - اٹھانے پر قادر ہونا -
فلاں - اٹھانے کے لیے کہنا۔
الجمل - پیٹ کا بچہ۔ درخت کا پھل
ج۔ جمال و اُجَمال و جُمُول -
الجمل بوجھ - بار - ج۔ اُجَمال و
حُمُولۃ - الجمل - ہودج یا
ہودج والے اونٹ - واحد
(الجُمُول)

الجمل - بکری کا بچہ۔ ج حُمَلَان
و اُجَمال - بہت پانی والا بادل۔
موسم بہار کے برسوں میں سے
ایک برج - لسان الجمل -
بارتنگ۔
الحملۃ - مع - ایک دفعہ کا بوجھ۔
لڑائی کا حملہ۔

الحُمَلۃ والحُمَلۃ - ایک جگہ سے
دوسری جگہ منتقل ہونا۔

الحَامِل - فا۔ ج حَمَلۃ - حَمَلۃ
القرآن - قرآن کو حفظ کرنے والے
اور اس کی روایت کرنے والے۔
مؤنث حاملۃ - امراۃ حاملۃ
وحاملۃ - پیٹ والی عورت - ج
حَوَامِل -

الحَامِلۃ - انگور وغیرہ اٹھانے کی ٹوکری۔
- الحَوَامِل - قدم - ہاتھ - اور
قدم کے پٹے۔

الحَمَال - دیت - تاوان - ٹیکس - ج
حُمَل -

الحَمَالۃ - ضمانت - دیت - تاوان -
الجَمَالۃ والحَمِیلۃ - ج۔ جمائل -
(الجَمَل) ج۔ جَمَامِل -
- علاقۃ السیف - تلوار کی پیٹی
کہتے ہیں - ہو حمیلہ علینا - وہ
ہم پر بار ہے۔

الجَمَالۃ - مزدور کا پیشہ۔
الحَمَال - قلی - مزدور - بوجھ اٹھانے
والا - عام لوگ اس کو عَمَال
کہتے ہیں - الحَمَال - جزوان -
کتابوں اور ادراق وغیرہ رکھنے کا
تھیلہ - اس کے لیے فصیح لفظ
القَمَطَر - ہے۔

الجُمُول - صابر - بردبار - حَمُولُ
البحر - سمندر کی نباتات -
الحُمُولۃ - بار بردار جانور - ج۔
حُمُولَات -

الحُمَلَان - بہہ کیا ہوا بار برداری کا جانور
مزدور کی اجرت -

الحَمِیل - اٹھایا ہوا - اجنبی - ضامن -
پیٹ کا بچہ - سیلاب کا لایا ہوا
کوڑا کرکٹ - پھینکا ہوا بچہ، جس



کی کوئی پرورش نہ کرے۔ منہ
 بولا بیٹا۔
 الحَامُولَةُ۔ شدید بارش کے وقت
 نالے میں اچھلتا ہوا پانی (مولد)
 ج۔ حَوَامِيل۔
 المَحْمِل۔ جس میں کوئی چیز اٹھائی جائے
 ہرودج۔ ج۔ مَحَامِل۔
 المَحْمُول۔ مفع۔ المَحْمُول والمَوْضِع
 عند المنطقین۔ منطقوں کی
 اصطلاح میں قضیہ حلیہ کے ہر دو
 اجزاء جو با اصطلاح نحو میں مسند
 مسند الیہ کہلاتے ہیں مثلاً ذیذ
 کدیجہ میں زید موضوع ہے اور
 کرم محمول۔
 حَمَلَقَ۔ آنکھیں کھول کر تیز نظر سے دیکھنا۔
 حُمْلَاقِ العین و حُمْلَاقِهَا و
 حُمْلُوقِهَا۔ پپوٹوں کے اندر کا حصہ۔
 ج۔ حَمَالِیق۔
 الحَمَوُ والحَمَاءُ والحَمَوُ والحَمَاءُ
 خسر۔ خاوند کے رشتہ داروں میں
 سے کوئی شخص۔ یہ اسمائے ستہ
 مکبرہ میں سے ہے۔ اس کا اعراب
 حالت رفعی میں واؤ کے ساتھ،
 حالت نصبی میں الف کے ساتھ،
 اور حالت جری میں یاء کے ساتھ
 آتا ہے اور ہمیشہ مضاف ہو کر
 متعل ہوتا ہے۔ تشنیہ۔ حَمَوَان
 وَحَمَّان۔ ج۔ آحَمَاء۔
 حَمَاءُ۔ الرجل۔ ساس۔ حماة
 المرأة۔ ساس۔ ج۔ حَمَوَات
 الحَمَاءُ۔ پٹلی کا عضلہ۔
 حَمَوُ۔ الشمس۔ آفتاب کی گرمی۔
 حَمَوَةٌ۔ الأَلمَد۔ درد کی تیزی۔
 حَمَى دمن، حَمِيًا و حَمِيَّةً۔ و
 حَمَايَةً و حَمِيَّةً۔ الشَّيْءُ

مِنَ النَّاسِ۔ لوگوں سے کوئی چیز
 روکنا۔ بچانا۔ (حَمِيَّةً)
 المَرِيضُ مَا يَضُرُّهُ و عَمَّا
 يَضُرُّهُ۔ بیمار کا مضر چیز سے
 پرہیز کرنا۔
 حَمِيٍّ دس، حَمِيَّةً و حَمِيَّةً۔
 مِّنَ الشَّيْءِ۔ کسی کام کے کرنے
 سے ناک چڑھانا۔
 حَمِيٍّ دس، حَمِيًا و حَمِيًا و حَمَوًا۔
 الناس۔ آگ کا بہت تیز گرم
 ہو جانا۔ علیہ کسی پر سخت
 ناراض ہونا۔
 حَامِي۔ محاماة و حَمَاءُ۔ عندہ
 دوسرے سے بچانا۔ حمایت کرنا۔
 علی الضیف۔ میزبانی عمدہ
 طریقہ سے کرنا۔
 آحَمِيٍّ۔ اِحَمَاءُ۔ المکان۔ کسی جگہ
 جمی بنانا۔ ناقابل پہنچ بنانا۔
 الحَدِيدَ۔ لوہے کو بہت
 گرم کرنا۔
 تَحَمَّى و آحَمِيٍّ۔ المَرِيضُ۔ رُکنا۔
 پرہیز کرنا۔ احتی منہ۔ بچنا۔
 تَحَامِي۔ ہ۔ کسی سے بچنا۔ پرہیز کرنا
 اِحْمَوِيٍّ اِحْمِيْمَاءُ۔ رات اور بادل
 کا سیاہ ہونا۔
 الحَمَلِي۔ وہ چراگاہ جس میں کسی دوسرے
 کو چرانے کی اجازت نہ ہو۔ ہر وہ
 چیز جس کو غیر کے تصرف سے بچایا
 جائے۔ تشنیہ۔ حَمِيَّان۔
 حَمِيٍّ۔ الشمس۔ آفتاب کی تمازت
 الحَمَاءُ۔ بچائی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے
 ”ھو حَمَاءُ لَكَ“۔ یہ تمہاری طرف
 سے فدیہ ہے۔
 الحَمِيَّة۔ محفوظ کی ہوئی شے۔ پرہیز
 کہا جاتا ہے۔ المَعْدَةُ بَيْتُ

الداء و الحَمِيَّةُ رَأْسُ
 كُلِّ دَوَاءٍ۔ یعنی عمدہ بیماری کا
 گھر ہے۔ اور پرہیز چوٹی کی دوا ہے۔
 الحَمِيَّة۔ نفرت۔ مروت۔ نخوت۔
 الحَمِيٍّ۔ بخار۔ ج۔ حَمِيَّات۔
 الحَمِيَّا۔ غصہ کا ابتدائی جوش۔
 کہا جاتا ہے۔ لَا تَكْلَمُ فِي حَمِيَّا
 غَضَبِهِ۔ اس کے غصہ کے
 ابتدائی جوش میں اس سے کلام نہ
 کرو۔ شراب کا جوش۔ شراب۔
 من کل شئی۔ ہر چیز کی
 تیزی اور اس کا ابتدائی جوش۔
 کہتے ہیں۔ ”هُوَ شَدِيدُ الحَمِيَّا“۔
 وہ شریف النفس اور خود دار
 آدمی ہے۔
 الحَمَّة۔ زہر بڑک۔ ج۔ حَمَات و
 حَمَلِي۔ حَمَّةُ البَرْد۔
 سردی کی شدت۔
 الحَامِي۔ فا۔ شیر۔ کتا۔ ج۔ حَمَاء و
 حَامِيَّة۔
 الحَمِي۔ وہ شخص جو ظلم برداشت نہ
 کر سکے۔ محفوظ کی ہوئی شے۔ وہ بیمار
 جس کا پرہیز کر دیا گیا ہو۔
 الحَامِيَّة۔ الحَامِي کا مؤنث۔
 بہت حمایت کرنے والا۔ اس
 صورت میں تاء مبالغہ کے لیے ہو
 گی، حفاظت کرنے والا گروہ۔ ج۔
 الحَوَامِي۔
 حَقَّ دمن، حَمِيَّةً۔ آواز نکالنا
 خوشی یا غم سے۔ القوس
 کمان سے آواز نکالنا۔
 الیہ۔ کسی کا مشتاق ہونا۔
 (حَقَّةً و حَمَانًا) علیہ۔
 کسی پر مہربان و شفیق ہونا۔ صفت
 دَحْنُون

حَنَہ (ن، حَنًا) - پھیرنا - باز رکھنا۔
 کہتے ہیں: "حَنَ عَنِ شَرِّكَ"۔
 اپنے شر کو مجھ سے باز رکھو۔
 حَنَنٌ - الشجر - درخت کا شکوفہ
 نکالنا۔

أَحَنَ - القوس - کان سے آواز
 نکالنا۔ الرجل - آدمی کا
 غلطی کرنا۔

تَحَنَّنَ - علیہ - کسی پر رحم کرنا۔
 مہربانی کرنا۔

تَحَانٌ وَاسْتَحَنَ - الیہ کسی کا
 مشتاق ہونا۔ استحقاق (شوق)
 فُلَانًا - شوق نے فُلَانٍ کو خوش
 کیا۔

الحَانُ - فَا - بہت خوش ہونے والا۔
 کہتے ہیں: "مَا لَهُ حَاقِقَةٌ وَلَا
 أَنَّهُ"۔ اس کے پاس نہ اونٹنی
 ہے نہ بکری۔

التَّحَنُّانُ - رحمت و مہربانی۔

الْحَنُّ - حنون کا ایک گروہ۔

الْحَنَانُ - رحمت - رزق - برکت۔

دل کی نرمی - کہا جاتا ہے -

"حَنَانِيكَ وَحَنَانِكَ يَا رَبِّ"

اے پروردگار تیرے رحم کی التجا

کرتا ہوں۔ "وَحَنَانُ اللَّهِ"

پناہ بخدا - معاذ اللہ۔

الْحَنَانُ - مہربانی - خدا تعالیٰ کے اسمائے

حسنی میں سے ایک اسم۔ کسی

چیز کا مشتاق۔ سہمہ

حنان - آواز نکالنے والا تیر۔

طریق حنان - واضح اور

کھلا راستہ۔

الْحِنَانُ - ہندی۔

حَنَانٌ وَحَنَانٌ - المکان - جگہ

کا سرسبز ہونا۔ صفت (کھائی)،

اور کہا جاتا ہے: "احضر حانئ"
 گویا حانئ تاکید کے لیے آتا ہے
 جیسے۔ اسود حالک - اصفی
 قاقح - ابیض فاصع - احمد قانی
 حَنَانٌ - تَحْنِيضٌ وَتَحْنِيضَةٌ - ہندی
 سے رنگنا۔

الْحِنَاءُ - ہندی - واحد حِنَاءَةٌ ج
 حَنَان -

تَحَنَّنَ بِالْحِنَاءِ - ہندی سے رنگا جانا
 أَبُو الْحِنَاءِ - ایک سرخ سینہ والا
 چھوٹا پردہ۔

حَنِيبٌ (س) حَنِيبًا وَحَنِيبٌ -

وَتَحَنَّبَ - الشَّيْءُ - بڑا ہونا۔

حَنِيبَةٌ - الکبر - جھکا دینا

- تَحَنَّبَ عَلَيَّہ - کسی پر

مہربان ہونا۔

حَنْبَرٌ - حَنْبَرَةٌ - البرد - ٹھنڈکا

سخت ہونا۔

الْحَنْبَرُ - پست قدم۔

حَنْبَلٌ - لوبیا کھانا۔ موزہ یا پرانی

پوستیں پہننا۔

تَحَنَّبَلٌ - سر جھکانا۔

الْحُنَابِلُ - مِنَ الْاَوْتَانِسِ - مضبوط

اور موٹا تانت۔

الْحَنْبَلُ - پست قدم مٹے پیٹ والا۔

الْحَنْبَالُ - پر گوشت - فربہ - بہت

بولنے والا۔

الْحَاوُتُ - شراب پیچنے والے کی دکان

عام دکان۔ (مذکر و مؤنث) ج

حَوَانِيَتٌ - نسبت کے لیے۔

(حَانِيٌّ وَحَانِيٌّ)

حَنِثٌ (س) حِنْثًا - باطل کی طرف

جھکنا مائل ہونا۔ فی یَمِيدٍ

قسم توڑنا۔

أَحْنَثَہ - قسم توڑنا۔

تَحَنَّثَ - گناہ سے نفرت کرنا۔ گناہ
 چھوڑنا۔ عبادت کرنا۔ بتوں سے
 الگ ہونا۔ اور ان کی عبادت
 ترک کرنا۔ من کذا - گناہ
 سے بچنا۔ توہ کرنا۔

الْحِنْثُ - مص - گناہ - ج - أَحْثَاتُ
 کہتے ہیں: "بَلِغُ الْغَلَامُ الْحِنْثُ"
 لڑکا بالغ ہو گیا۔

الْحَاثُ - گناہ کے مواقع۔

حَنْجَہ (ن) حَنْجًا - جھکانا۔

الحبل - رسی مضبوط بننا۔

حَبَّتْ حَاجَةٌ - حاجت و ضرورت

پیش آنا۔

أَحْنَجَہ - الشَّيْءُ - کسی شے کو جھکانا۔

الخبر - خبر کو چھپانا۔

الکلام - کلام کا رخ پھیر کر اس کو

ناقابل فہم بنانا۔ الشَّيْءُ -

جھکانا۔ الرجل - کسی کا

جلدی چلتے ہوئے پیچھے کی طرف

دیکھنا۔

احتنم - الشَّيْءُ - جھکانا۔

حَنْجَرِيَتٌ - العین - آنکھ کا

اندر کو دھنسننا۔

حَنْجَرٌ - ذبح کرنا۔

الْحَنْجَرَةُ وَالْحَنْجُوسُ - زرخسہ۔

سانس کی نالی۔

حَنْحَنَ - علیہ - خوف کھانا

ڈرنا۔ عوام کہتے ہیں: "حَنْحَنَ

النَّدَقُ أَوِ الْجَوْشُ وَنَحْوَهُمَا"

یعنی اخروٹ کی گری کا خراب ہو

جانا۔ اس کے لیے فصیح لفظ

"حَنْحَنَ" ہے۔

حَنْدَسٌ وَتَحْنَدَسُ - اللیل -

رات کا تاریک ہونا۔

الْحِنْدَسُ - بہت تیرہ و تاریک رات



سخت اندھیری رات - تاریکی -
 اندھیری - ج - حَنَادِس
 الحَنَادِس - ہرماہ کی تین آخری
 تاریک راتیں -
 الحِنْدَ قُوْق - والحِنْدَ قُوْق
 والحِنْدَ قُوْق والحِنْدَ قُوْق
 ایک قسم کی گھاس یا سبزی کا نام
 ہے - ایک پاگل سادراز قامت
 آدمی -
 حَنْدَ (ض) حَنْدَا وَنَحْتَاذَا -
 اللحم - گوشت بھونا - پکانا
 صفت مفعولی (حَنِيدٌ)
 (حَنْدَا وَنَحْتَاذَا) -
 الفرس - گھوڑے کو پسینہ لانے
 کے لیے دوڑانا - صفت مفعولی -
 (مَحْنُوذٌ وَحَنِيدٌ) -
 حَنْدَتْهُ الشَّمْسُ - سورج کا کسی
 کو جھلس دینا -
 أَحْنَدَ - شراب میں زیادہ یا تھوڑا پانی
 ملا - اللحم - گوشت کو پکانا -
 اسْتَحْنَدَ - دھوپ میں لیٹ کر پسینہ
 لانا -
 الحَنْدَّة - سخت حرارت -
 حَنَّاذ - مٹی علی الکسر - سورج -
 الحَنِيدُ - گرم پانی - بھونا ہوا گوشت -
 سرد ہونے کی خوشبو دار چیز -
 الحِنْدِيْدُ - بہت پسینہ والا -
 حَنْدَ (ض) حَنْرَا - الحَنِيرَةُ
 محراب بنانا - دیوار میں خمدار جگہ بنانا -
 الحَنِيرَةُ - محراب - طاق میں خمدار جگہ -
 کمان - دھنیے کی کمان - ہر خمدار و
 ٹیڑھی چیز ج - حَنِيرٌ وَحَنَائِدُ -
 حَنِسَ (س) حَنْسَا - وسط معرکہ میں
 ہادری سے ڈٹے رہنا -
 الحُنْسُ - خدا پرست - پرہیزگار لوگ -

حَنْشَه (ض) حَنْشَا - بٹانا - علیحدہ کرنا
 غضبناک کرنا - الصید -
 شکار کرنا - حَنْشَتِ الحَيَّةُ فُلَانًا -
 سانپ کا کسی کو دسنا -
 أَحْنَشَه - شکار کرنا - عن الامر
 جلدی کرنا -
 الحَنْشُ - سانپ کی ایک قسم - ہر وہ
 جانور جس کا سر سانپ کے مشابہ
 ہو - مثلاً گرگٹ جھپکلی وغیرہ - ج
 أَحْنَشَ وَحُنْشَان -
 حَنْطَان (ن) حُنُوطًا وَحَنْطًا -
 الزرع - کھیتی کا کٹائی کے قابل
 ہونا - الشجر - درخت کے
 پھل پکنا -
 حَنْطَ (ض) حَنْطَا - الجلد - چمڑے
 کا سرخ ہونا - صفت (حَانِطٌ)
 حَنْطَ وَاحْنَطَ - المیت -
 مردہ کے خوشبو لگانا -
 تَحْنَطَ - مردہ پر خوشبو ملنا -
 اسْتَحْنَطَ - مرنے پر دلیری دکھانا -
 الحَانِطُ - فا - بہت گیہوں والا گیہوں
 والا پکے ہوئے پھل والا درخت -
 احمر حانط - گہرا سرخ -
 الحِنْطَةُ - گیہوں ج - حِنْطَ -
 الحِنْطِي - بہت گیہوں کھانے والا -
 پھولا ہوا -
 الْأَحْنَطُ - بڑی اور گہنی داڑھی والا -
 الحِنَاطَةُ - گیہوں نیچے کا پیشہ - مردوں
 پر خوشبو لگانے کا پیشہ -
 الحِنَاطُ - مردوں پر حنوط لگانے والا -
 (د) وَالْحِنَاطِي - گندم فروشن -
 الحِنَاطُ وَالْحِنُوطُ - ایک مرکب
 خوشبو جو مردوں کے جسم اور کفن
 پر لگائی جاتی ہے -
 الحِنْطِي - پست قد -

الحِنْطِي - وہ شخص جس کی خوراک گیہوں ہو
 الحِنْطَا وَالْحِنْطَاوَةُ - بڑے پیٹ
 والا - پست قد -
 الحِنْطَبَاءُ وَالْحِنْطَبَاءُ - نرگڑھی -
 نرگڑھیلا -
 الحِنْطُوبُ - موٹی اور بھدی عورت -
 الحِنْطَابُ - بد خو - پست قد -
 الحَنْظَلُ اندرائن - اس کی تلخی
 ضرب المثل ہے -
 حَنْظَلَتِ - الشجرة - درخت کے
 پھل کا کڑوا ہوجانا -
 حَنْفَ (ض) حَنْفَا - جھکنا -
 رجلہ - پاؤں ٹیڑھا کرنا -
 حَنْفَ (س) حَنْفَا وَحَنْفَ (ك)
 حَنْفَا - ٹیڑھے پاؤں والا ہونا -
 صفت (أَحْنَفٌ) مؤنث
 حَنْفَاءُ -
 حَنْفَه - ٹیڑھے پاؤں والا کر دینا -
 تَحْنَفَ - حنفی ہونا - یا حنفی کا کام کرنا -
 کہتے ہیں "شَافِعِي تَحْنَفُ" شافعی
 حنفی ہو گیا - الیہ - مائل ہونا -
 الحَنْفَاءُ کمان - اُستہ - گرگٹ - کچھوا -
 الحَنِيفُ - سیدھا - اسلامی احکام پر
 عمل پیرا - ہر وہ شخص جو دین ابراہیمی
 پر قائم ہو موصوفہ ج - حَنْفَاءُ -
 الحَنِيفِي - مذہب امام ابو حنیفہ رح کا
 پیرو - حنفی المذہب - ج - أَحْنَافُ
 وَحَنْفِيَّةُ -
 الحَنِيفِيَّةُ - فی الاسلام والدين
 اسلام کی طرف میلان اور دین کے
 ساتھ تمسک -
 الحِنْفَشُ وَالْحِنْفِيشُ - ایک قسم کا
 زہریلا سانپ موٹے سراور باریک
 گردن والا - یہ جب غصہ میں آتا ہے
 گردن کی رگیں پھلا لیتا ہے - ج



شراب پیچنے والے۔
 الحَنُودُ والحَنُ - ہر وہ حصہ بدن جس میں لمبی ہو۔ جیسے پسلی۔ ہر ٹیڑھی لکڑی۔ حنوا الشیء - چیز کا پہلو۔ وحنوا السرج - زین کا اگلا اور پچھلا حصہ۔ جہ آحناء وحنی وحنی - و آحناء الاموس۔ پیچیدہ باتیں۔
 الحَنِیۃ - کمان۔ من البناء۔ عمارت کا محراب دار حصہ۔ جہ۔ حنایا وحنی۔
 الاحنی - کڑا۔ ٹیڑھا۔ مونٹ۔
 کہا جاتا ہے "فلان احنی الناس صلوٰۃ علیک" یعنی فلاں شخص تم پر سب سے زیادہ شفیق، و مہربان ہے۔
 الحَنِیۃ والْمَحْنُوۃ والْمَحْنَاۃ - جہ۔ تحان۔ وادی کا موڑ۔
 حَاب (ن) حَوْبًا وْحَوْبًا وْحَوْبَةً وْحَابًا وْحِیَابَةً - بکذا گنگار ہونا۔
 آحَوْبٌ آحَوْبًا - گناہ کی طرف مائل ہونا۔ تَحَوْبٌ - گناہ سے بچنا۔ منہ۔ دردمند و غمزدہ ہونا۔ فی دعائہ دعائیں تضرع و زاری کرنا۔
 اِسْتَوْحَبَ - دردمند ہونا۔
 الحَوْبُ والحَوْبُ - غم اور وحشت۔ الحَوْبُ والحَوْبُ والحَوْبَةُ والحَوْبَةُ والحَابُ والحَابَةُ - گناہ۔
 الحَوْبَةُ - مال باپ۔ بہن بیٹی۔
 الحَوْبَةُ والحَبِیۃ والحَوْبَةُ - مال کی طرف سے رشتہ۔ کہا جاتا ہے "لی فیہم حوبۃ" میرا ان سے نفیال کا رشتہ ہے۔

الغُرَاب - کوئے کی چونچ۔ یا اس کی سیاہی۔ کہا جاتا ہے۔ "اسود من حنک الغراب" یعنی کوئے کی چونچ سے زیادہ کالا۔ جہ۔ آحناک - الحنک لوگوں کی وہ جماعت جو چراگاہ کی تلاش میں کسی جگہ جائے۔ چھوٹے ٹیلے جن کے پتھر نرم و سفید ہوں واحد۔ (حنکۃ)
 الحُنک - وہ عقل مند آدمی جس کو زمانہ نے تجربہ کار بنا دیا ہو۔ مونٹ۔ (حنکۃ)
 الحِنَاک - جہ حُنک و (الحِنک) لگام کی رسی۔
 الحُنک - وہ تجربہ کار جس کو واقعات زمانہ نے باخبر اور حکیم بنا دیا ہو۔
 الحُنکلیس - ایک قسم کی مچھلی جس کے لیے فصیح عربی الجری ہے۔
 حَنَاد (ن) حَنُوًا وْحَنَی (ن) حِنَایۃ - الشیء - مرٹنا بیچ دینا۔
 حَنَا الحَنِیۃ - ای القوس۔ کمان بنانا۔
 حَنَاد (ن) حَنُوًا وْحَنَی - علیہ۔ مائل ہونا۔ مرٹنا۔
 حَنَی - تَحْنِیۃ - الشیء - مرٹنا۔ تَحَنَی - مرٹنا۔ ٹیڑھا ہونا۔ علیہ کسی پر مہربانی و شفقت کرنا۔
 اِنْحَنَی - ٹیڑھا ہونا۔ مرٹنا۔
 الحَانِیۃ - جہ الحَوَانِی والحَانَاۃ - والحَاوُت - دکان۔
 الحَاوِی والحَاِنِی - دکاندار۔
 الحَوَانِی - ہر وہ جانب سب سے لمبی پسلیاں۔
 الحَانِیۃ - شراب الحانی کا مونٹ

حَنَافِشٌ وْحَنَافِشٌ - حَنِقَ (س) حَنَقًا - منہ وعلیہ سخت ناراض ہونا۔ صفت۔
 (حَنِقَ - حَنِقَ) جہ۔ حَنِقَ - ابل حَنِقَ وْحَیَنِقَ - موٹے اونٹ۔
 اَحْنَقَ - غضب ناک کرنا۔
 اَحْنَقَ الدَابَّةَ - جانور کو دبلا کرنا۔
 اَحْنَقَ الرَّجُلَ - سخت کینہ رکھنا۔
 اَحْتَنَقَ - موٹا ہونا۔
 الحَنِقَ - والحَنِقَ - سخت غصہ۔
 حَنَکَ (ن) حَنَکًا - الشیء - سمجھنا۔ (واحتنک القوس) گھوڑے کے منہ میں رسی دینا۔
 حَنَکَ وْحَنَکَ - چبا کر نرم کرنا۔
 حَنَکَ (ن) حَنَکًا وْحَنَکًا - وْحَنَکَ وْحَنَکَ - د۔
 اَحْتَنَکَ - الدهر الدجل زمانہ کے تجربات و امور کا انسان کو دانا و حکیم بنا دینا۔ صفت۔
 (حَنِیۃ) جہ۔ حُنَکَ - حَنَکَ الصَّبِیِّ - بچہ کو مذہب بنانا۔
 تَحَنَکَ - پکڑی کو ٹھوڑی کے نیچے سے لاکر باندھنا۔
 اَحْتَنَکَ - الجراذ الارض - ٹڈی کا زمین کی کاشت کو کھا کر صاف کر جانا۔ اَحْتَنَکَ کسی پر غالب ہونا۔
 اِسْتَحْنَکَ - کم خوراک ہونے کے بعد بہت کھانے لگنا۔
 الحَارِکَ - فا - اسود حَارِکَ سخت سیاہ۔
 الحُنَکَ والحِنَکَ والحَنَکَ - تجربہ الحَنَکَ - تالو۔ نیچے کا جڑا۔ ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ۔ حَنَکَ



حَابِت - حالت۔ کہا جاتا ہے کہ۔
 "مات بحوبة سوء" اس نے
 بری حالت میں رات گزاری۔
 الحوبة - کمزور آدمی۔ کہا جاتا ہے۔
 "انما فلان حوبة" یعنی
 فلاں شخص نہ خیر رساں ہے، نہ
 شر رساں۔ "وان لي حوبة"
 اَعولها" یعنی میرے بال بچے
 ہیں جن کی میں کفالت کرتا ہوں۔
 الاحوب - گنہگار۔ مؤنث۔ حوباء۔
 الحوباء۔ نفس۔ ج حوباءات
 حَات (ن) حوثًا و حوثًا۔
 - الطير او الوحش على
 الشئ - پرندہ یا وحش کا کسی چیز پر
 چکر کاٹنا۔ منڈلانا۔
 حَاوَتْه - دھوکا دینا۔ ع عن
 كذا - مداخلت کرنا۔
 الحوت۔ مچھلی۔ عام طور پر بڑی مچھلی کو
 حوت کہتے ہیں۔ ج حيتان۔
 و آحوات و حوتة۔ آسمان
 کے ایک برج کا نام۔
 احاث احاثَةً - الارض
 زمین کھود کر مٹی بکھیرنا۔ الثا طنا کرنا
 الشئ - جدا جدا کرنا۔ متفرق کرنا
 کہتے ہیں۔ "تركهم حوث بوث"
 اوجيث بيث او حاث باث
 ا د حوثًا بوثًا - یعنی اس
 نے ان کو متفرق چھوڑا۔
 استحاث استحاثَةً - الارض
 زمین سے تلاش کر کے نکالنا۔
 الشئ - نکالنا۔
 الحوتاء۔ جگہ اور اس کے ماحول کے
 حصے۔ موٹی عورت۔
 حَاج (ن) حوجًا - محتاج ہونا۔
 حَوَج - به عن الشئ - کسی شے

سے ہٹانا۔ باز رکھنا۔
 آحوج - اليه - کسی کا محتاج ہونا۔
 - ع - محتاج کرنا۔ بنانا۔
 تحوج - اپنی حاجت طلب کرنا۔
 کہتے ہیں "حَوَج فلان يَحَوِجُ"
 فلاں شخص اپنی حاجت طلب
 کرتے ہوئے نکلا۔
 احتاج - اليه - کسی کا محتاج ہونا۔
 الحاج - ایک قسم کا کاٹا۔ ایک قسم کا
 ترش پودہ۔
 الحوج - مص - سلامتی۔ کہتے ہیں
 "حَوَجًا لك" تمہارے لیے
 سلامتی ہو۔
 الحوج - محتاجی۔ فقر و فاقہ۔
 الحوجاء۔ حاجت۔ اسی سے ہے یہ
 قول "ما كان في نفسه
 حوجاء ولا لوجاء" اور تصغیر کے
 ساتھ "حَوِجَاءٌ وَلَا لَوِجَاءٌ"
 یعنی اس کے دل میں کوئی حاجت
 نہیں تھی۔ اور کہتے ہیں "كلمته
 فنارِد حوجاء ولا لوجاء"
 میں نے اس سے بات چیت کی تو
 اس نے جواب میں اچھا برا کوئی
 کلمہ نہیں نکالا۔
 الحاجلة - ضرورت۔ سوال۔ ج۔
 حاج و حوج و حاجات
 و حوائج۔ آخری جمع حاجتہ
 کی تقدیر پر اور مبالغہ کے طور پر
 حاجلة حاجتہ۔ کہتے ہیں۔
 المحاويع - محتاج لوگ۔
 حَاد (ن) حودًا - عنده
 ایک طرف ہٹنا۔
 حَاوَدْتَه - الحشي۔ بخار کا بار
 بار آنا۔ کہتے ہیں "هُوِيْحَاوَدْنَا
 بالزيارة" وہ ملاقات کے لیے

ہمارے پاس بار بار آتا ہے۔
 حَادَه (ن) حَوَدًا - حفاظت
 کرنا۔ على الشئ - نگہبانی
 کرنا۔ (د) وَاَحْوَدَ، الدابة۔
 جانور کو تیز ہانکنا۔ اَحْوَدَ
 الثوب - کپڑے سمیٹنا۔
 احوذ السير - تیز چلنا۔
 احوذ الشاعر قصيدته - شاعر
 کا عمدہ قصیدہ رکھنا۔
 اسْتَحْوَدَ - عليه - کسی پر غلبہ اور
 استیلا پانا۔
 الحاذ - ایک قسم کا درخت۔ واحد
 (الحاذة) ج - آحاذ۔ پیٹھ۔
 کہا جاتا ہے "هو خفيف الحاذ"
 وہ کم مال والا ہے۔
 الحواذ - دوری۔ جدائی۔
 الحوذان - ایک خوش مزہ بوٹی جس کا
 پھول سرخ ہوتا ہے اور اس کی جڑ
 میں زردی ہوتی ہے۔
 الاحوذی - ماہر۔ تیز دست اور ہر کام
 میں پھرتیلا۔
 الحوذی کو چوان۔ گازیہاں۔ عام لوگ
 العربی کہتے ہیں۔
 حَار (ن) حَوْرًا و حَوْرًا و
 مَحَارًا و حَارَةً - واپس ہونا
 متعیر ہونا۔ (د) حَوْرًا الثوب
 کپڑے کو دھونا۔ سفید کرنا۔
 حَارَ الشئ - کسی چیز کا ناقابل
 فروخت ہونا۔ کہتے ہیں "حَارَ
 بعد ما كَارَ" یعنی زیادتی کے
 بعد گھٹ گیا۔ نعوذ بالله من
 الجوس بعد الكور - یعنی ہم زیادتی
 کے بعد نقصان سے اللہ کی پناہ
 مانگتے ہیں۔
 حَوْرَت (س) حَوْرًا - العین

آنکھ کی سفیدی کا بہت سفید اور
سیاہی کا بہت سیاہ ہونا۔
صفت (حَوْرَاء) آنکھ والا۔
(أَحْوَر) جم۔ حُوس۔
جَوَس — القُرص۔ روٹی کو بیلن
سے بیٹا۔ الثوب کپڑے کو
سفید کرنا۔ ۱۰ اللہ۔ محروم کرنا
حَاوَرَة مُحَاوَرَة وَ حَوَارًا وَ
حَوَارًا۔ گفتگو کرنا۔ جواب دینا۔
آحَار۔ إِحَارَة۔ الجواب۔ جواب
دینا اور اسی سے ہے۔ "لَمَّا
يُخْرِجُوا أَبَا۔ اس نے کوئی جواب
نہیں دیا۔ اور کہا جاتا ہے۔ "طَحَنَتْ
الطاحنةُ فَمَا آحَارَتْ" چکی
پیسنے والی نے چکی پیسی اور آٹا کچھ
بھی نہیں دیا۔ احارت الناقة
اونٹنی کا بچہ والی ہونا۔ احار
البعير۔ اونٹ کو ذبح کرنا۔
تَحَاوَر — القوم۔ ایک دوسرے
سے گفتگو کرنا اور ایک دوسرے
کو جواب دینا۔
إِخْوَر — إِخْوَرَاء — سفید ہونا۔
احورت العين بمعنی حورت
آنکھ کا بہت سیاہی اور سفیدی
والی ہونا۔
إِسْتَحَارَة۔ گفتگو کرنا۔
الحوس۔ ہلاکت۔ کمی۔ نقصان۔ کہا
جاتا ہے "اللہ فی حَوْرٍ وَ بَوْرٍ"
وہ نہ کسی صنعت ہی میں ہے اور
نہ کسی آمدنی میں۔
الحور۔ گرائی۔ تہہ۔ کہتے ہیں۔
"بعید الحور یعنی عقلمند" وما
أَصْبَتْ حَوْرًا" میں نے کچھ
نہیں پایا۔
الحوس۔ مص۔ سفید پتلے چڑے۔ سرخی

سے رنگا ہوا چڑا۔ گائے۔ چنار
کا درخت۔ جم۔ آحَوَار
الحَوَارِد الحَوَار۔ اونٹنی کا وہ بچہ
جس کا دودھ ابھی نہ چھڑایا گیا ہو۔
جم۔ آخَوَرَة وَ حَيَوَان۔
الحارة۔ گول چوک۔ شہر کا محلہ۔ کہا
جاتا ہے۔ "ندلنا فی حارة بنی
فلان" ہم بنو فلان کے محلہ میں
فروکش ہوئے۔
الحائر۔ فا۔ لاغر۔ دبلا۔
الحائرة۔ الحائر کا مونٹ۔ ما
هو الا حائرة من الحوائر"
یعنی اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں۔
الاحواری۔ سفید۔ نرم۔ ملائم۔
الحواری۔ سفید آٹا۔ کھریا مٹی۔ ہر سفید
کرنے والی چیز۔
الحواری۔ نصیحت کرنے والا۔ دھوبی
رشتہ دار۔ مددگار۔ بعض کے
نزدیک خاص انبیاء کے مددگار۔
اور اسی سے ہے۔ "الحواریون"
یعنی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ
السلام کے مددگار و انصار۔
الحواریۃ۔ الحواری کا مونٹ۔ شہری
عورت۔ جم۔ حَوَارِیَات۔
المحوس۔ چرخی کا دھرا۔ وہ لکڑی یا لوہا
جس پر چرخی گھومتی ہے۔ علم ہندسہ
کی اصطلاح میں کر کے دونوں
قطبوں کے ملانے والا سیدھا خط
— المَحْوَس۔ روٹی پکانے والے
کابلین۔ برودہ ٹکڑا جس پر کوئی چیز
گھومے۔ جم۔ محاورس۔ کہا جاتا
ہے۔ "فلقت محاورہ" یعنی
اس کا معاملہ بگڑ گیا۔
المحارة۔ واپسی۔ کمی۔ واپسی کی جگہ۔
اونٹ کی تلی۔ تالو۔ سپی۔ سپی

کی ہم شکل ہڈی۔ و حارة الاذن
کان کا گرہا۔
المَحْوَرَة وَ المَحْوَرَة۔ جواب
مُحَوِّ (مَحْوَس) وہ موزہ جس کا استر
سرخ چڑے کا ہو۔
حَاوَر (حَوَار) حَوَارَة وَ حَيَاوَة وَ احْتَارَ
إِحتِیَارًا۔ الشیء۔ اکٹھا کرنا
جمع کرنا۔ اپنے لیے مخصوص کرنا۔
— الابل۔ اونٹ کو نرمی
سے ہانکنا (حَاوَرُوا) الرجل
آدمی کا آہستہ چال سے چلنا۔
حَوَر۔ تَحْوِیْرًا۔ الابل۔ لیلۃ
الحوس میں اونٹوں کو پانی کی طرف
ہانکنا۔
حَاوَرَة مُحَاوَرَة۔ سنگ ساتھ۔
زندگی گزارنا۔ آپس میں میل ملاپ
رکھنا۔ پاؤں سے روندنا۔ دھتکارنا
تَحْوَس۔ کنارہ کش ہونا۔ علیحدہ ہونا
— الحیمة۔ سانپ کا کٹھلی
مارنا۔ کہا جاتا ہے۔ "دَخَلَ
علیہ فَمَا تَحَوَّرَ لَهُ" وہ اس
کے پاس آیا اور اس کے لیے علیحدہ
نہیں ہوا۔
تَحَاوَرَا۔ الفریقان۔ دو فریقوں
کا ایک دوسرے سے جدا ہونا۔
إِنْحَاوَرِ الْإِنْجَارَا۔ عنہ۔ کسی سے
پھر جانا۔ ہٹ جانا۔ الیہ۔
مائل ہونا۔ القوم۔ قوم کا
مرکز کو چھوڑ دینا۔ پسپا ہونا۔
شکست کھانا۔
المَحْوَسَة۔ کنارہ۔ طبیعت —
حوزة المملكة۔ سرحدوں کے
مابین وسطی حصہ۔ ملک کا دارالخلافہ
الحوز۔ چار دیواری سے محفوظ کی ہوئی
جگہ — حوز الدار۔ مکان



کے منافع جو اس کے ساتھ ملحق
اور متصل ہوں — لیلۃ الحوز
اونٹوں کو پانی کی طرف لے جانے
کی پہلی رات —
الْحَوْزِي — اونٹوں کو بائیکے والا قوم
کو چھوڑ کر علیحدہ فروکش ہونے والا۔
سیاہ۔

الْحَيَزُ وَالْحَيَزُ — جگہ۔ کہتے ہیں۔
”هَذَا فِي حَيَزِ التَّوَاتُرِ“ یعنی
اس کا ثبوت تو اتار کے درجہ
میں ہے۔

الْحَوْزَاءُ — لڑائی۔
الْحَوْزِيَّاتُ اور ساتھی سے پوشیدہ رکھا
ہوا ذخیرہ۔

الْأَحْوَزِي — ماہر ہر کام میں پھرتیلا و
چست۔ اچھا چلانے والا۔

الْحَوَاسُ — الحائِز کا مبالغہ اور
اسی سے ہے یہ قول ”الْأَثَمُ
حَوَازُ الْقُلُوبِ“ یعنی گناہ
دلوں پر پورا قابو پا لیتا ہے اور
آخر نا پسندیدہ کام تک سرزد
ہونے لگتے ہیں۔

حَاسٌ (ن) حَوْسًا — القوم
قوم سے میل ملاپ کرنا۔ روندنا۔
ذلیل کرنا — الذئب
الغلمہ۔ بھڑیے کا بکریوں میں گھس
کر ان کو تتر بتر کر دینا۔

حَاسَتِ الْمَرْأَةُ ذَيْلَهَا — عورت
کا دامن کھینچے ہوئے چلنا —
الْجَزَارُ الْإِهَابِ — قسائی کا
کمال اتارنا۔

حَوَسٌ (س) حَوْسًا — دلیر اور
من چلا ہونا۔ صفت (أَحْوَس)
تَحَوَسَ — دلیری اختیار کرنا —
فی الکلام۔ کلام کے لیے تیار ہونا

— للشئ — کسی شے کے لیے
درومند ہونا۔

الْحَوْسُ اسْتَحْوَسًا — رکنا۔ دیر لگانا۔
الْأَحْوَسُ — بہادر۔ جری۔ جو کسی شے سے
سیر نہ ہو۔ وہ شخص جو اپنی جگہ سے
نکلے، جب تک کہ اس کی حاجت
پوری نہ ہو جائے۔ بھڑیا۔ جر۔
حَوْس —

الْحَوْسُ — بہادر لوگوں کو بہت قتل
کرنے والا۔

الْحَوَاسَةُ غنیمت۔ ضرورت۔ حاجت
(— وَالْحَوِيسَاءُ) قرابت
رشتہ داری۔

حَاشٌ (ن) حَوْشًا — الابل
اونٹوں کو جمع کرنا اور بانگنا۔

(— وَآحَاشٌ) حَاشَةٌ وَ
أَحْوَشٌ حَوَاشًا وَاسْتَوْحَشَ
اسْتَحْوَشًا — الصيد
شکار کو گھیر کر پھندے کی طرف
لانا — حَاشٌ وَأَحْوَشٌ
وَأَحَاشٌ عَلَيْهِ الصَّيْدُ وَ
أَحْوَشُهُ إِيَّاهُ — شکار کرنے
میں کسی کی مدد کرنا۔

حَوَشَهُ بہت جمع کرنا۔ حَوَشَ
الرجل — آدمی کا شجاع و بہادر
ہونا۔ تیار ہونا۔

حَاوَشَهُ — علی الاحرار — کسی کو کسی کام
پر اکسانا۔ برا لگینے کرنا۔

تَحَوَّشَ — عنده۔ کنارہ کش ہونا۔
علیحدہ ہونا — منه۔ شرم و
جیا کرنا۔

إِعْجَاشٌ — جمع ہونا — عنده۔
نفرت کرنا — له الصيد
شکار کا خود آنا۔

تَحَادَشُوا — علیہ۔ کسی کو اپنے بیچ

میں لے لینا۔
إِحْتَوَشَ — القوم الصید۔ شکار کو
ایک کا دوسرے کی طرف ہلکانا۔
بھگانا — إِحْتَوَشَ القوم
الرجل وعلیہ۔ قوم کا کسی کو گھیر
کر اپنے درمیان میں لے لینا۔
الْحَوْشُ — بارہ۔ گھر کے ارد گرد کا صحن۔
الْحَوَاشَةُ — شرم و حیا کا سبب۔ رشتہ
داری۔

الْحَالِشُ — فا — حَالِشُ الشَّجَرِ۔
درخت کا گنجان اور گھنا حصہ۔
— رجلٌ (حَوْشٌ) الْفَوَادِ — تیز
فہم آدمی۔

الْحَوْشِيُّ — من الکلام۔ نادر، اور
غریب کلام۔ رجلٌ حَوْشِيٌّ۔
تنہائی پسند آدمی۔ لیلٌ حَوْشِيٌّ
تاریک رات۔

حَاصٌ (ن) حَوْصًا وَحِيَا صَةً —
الثوب۔ کپڑے سینے میں دور
دور لٹکے لگانا — حَوْكُهُ۔

ارد گرد پھینا۔ بیخود۔ تنگ کرنا
حَوْصٌ (س) حَوْصًا — دنیالہ چشم کا
تنگ ہونا۔ آنکھ کا پچھلا حصہ تنگ
ہونا۔ صفت (أَحْوَص) مؤنث

تَحَوَّصَ — ج حَوْصٌ وَآخَادِصٌ۔
حَاوَصَهُ۔ آنکھ کے پچھلے گوشے سے غنی
دیکھنا۔

إِحْتِصًا — إِحْتِيَاصًا — فی امرہ۔
اپنے کام میں احتیاط کرنا۔

الْحَوْصُ — مص۔ بیچش کا مڑ۔ کہا جاتا
ہے۔ لَا طَعْنََ فِي حَوْصِكَ
یعنی جو تم نے سیاہ ہے۔ میں اس کو
ادھیڑ دول گا۔ اور جو تم نے درست
کیا ہے میں اس کو بگاڑ دول گا۔
”وَمَا طَعَنْتَ فِي حَوْصِهِ“ تم

اپنے ارادہ میں ناکام رہے۔
”ودخل فی حوص الناس“
وہ لوگوں کے باطن امور میں دخیل
ہوا۔

الحیاضۃ۔ جانور کا تنگ۔
الحواص۔ لکڑی کی سوئی۔
الحوص۔ چھوٹی آنکھیں۔

حوصل۔ انطاثر۔ پرندہ کا پوٹا بھرنا۔
الحنطۃ۔ گھوٹوں کا اکٹھا کرنا۔

الحوصل والحوصلۃ والحوصلۃ
والحوصلۃ۔ پرندہ کا پوٹا۔

حاض (رن) حوصا۔ حوض بنانا۔
الماء۔ پانی جمع کرنا۔

حوصن۔ حوض بنانا۔ حول الامر۔
گھومنا۔ چکر لگانا۔

إحطاض و تحوصن۔ حوض بنانا۔
استحوصن۔ الماء۔ پانی کا حوض بنا

گرٹھے میں جمع ہونا۔
الحوصن۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔

جر۔ أخواص و حیاض و
حیضان۔ حوض الاذن۔

کان کا گرٹھا۔
المحوصن۔ درخت کا تھالا۔

حاطہ (رن) حوطا و حیطة و
حیاطۃ۔ حفاظت کرنا۔ دیکھ

بھال رکھنا۔ بھ۔ گھیرنا۔
احاطہ کرنا۔

حوطۃ۔ حفاظت کرنا۔ نگہبانی کرنا
— الساحة۔ گردا گرد

دیوار بنانا۔ الحائط دیوار
بنانا۔ حول الامر۔ گھومنا

چکر لگانا۔
حاطۃ۔ کسی ایسی چیز کے حصول

کے لیے چکر کاٹنا۔ جس کے دینے سے
کسی کو انکار ہو۔

أحاط و احتاط۔ بھ۔ کسی کو چاروں
طرف سے گھیرنا۔ احاطہ کرنا۔

احاط بالامر علما۔ کسی امر
کے بارہ میں پورا پورا علم رکھنا۔

احتاط الرجل۔ آدمی کا اپنے امور
میں ہوش و حواس سے کام لینا۔

احتاط علی الشیء۔ محافظت کرنا۔
احتاط لنفسه۔ بھروسہ کے

ساتھ لینا۔
تحوطۃ۔ حفاظت کرنا۔ کہا جاتا ہے۔

”فلان يتحوط اخاه حیطة“
حسنۃ۔ یعنی فلاں اپنے بھائی

کی اچھی دیکھ بھال رکھتا ہے۔
استحاط۔ فی امرہ او تجارۃ۔

اپنے کام یا تجارت میں بڑی احتیاط
سے کام لینا۔

الحوطۃ والحیطۃ والحیطۃ۔
احتاط۔ کا اسم۔ الحیطۃ

پاکدامن شریف عورت۔
الحوط۔ مص۔ چاندی وغیرہ کا بنا ہوا

چاند۔ کوڑیاں یا نمبر سے پرویا ہوا
دھا کا جس کو عورتیں نظر بد سے

بچنے کے لیے مکر پر باندھتی ہیں۔
الحوط۔ وہ چیز جس سے ناقص دراہم

کو پورا کیا جائے۔
الاحوط۔ بہت احتیاط کرنے والا۔

قابل اعتماد۔ (یہ شاذ ہے کیونکہ
یہ احتاط سے ماخوذ ہے)

الحائط۔ دیوار باغ۔ جرحیطان
وحیاط۔

الحواط۔ ”حائط“ اسم فعل کا مبالغہ
حوط۔ الامر۔ کسی کام کا مدار۔

الحواطۃ۔ غلہ کی حفاظت کے لیے بنی
ہوئی جگہ۔

المحاط۔ بارہ۔ بار۔

المحیط۔ فا۔ دائرہ کا احاطہ کرنے والا۔
خط — البحر المحيط۔ بحر

اوقیانوس۔ جو ہر طرف سے خشکی سے
گھرا ہوا ہے۔

حاف (رن) حوفا و حوفا۔
الشیء۔ کنارہ پر کرنا۔ حوفا

المکان۔ کسی جگہ کو گھیرنا۔
تحوفا۔ الشیء۔ کسی شے کو

اس کے کناروں سے کم کرنا۔ کناروں
کو لینا۔

الحوفا۔ مص۔ ازار نما چڑے کی ایک
چیز جس کو بچے پسندتے ہیں۔ طرف۔

کنارہ۔ گوشہ۔
الحافان۔ زبان کے نیچے کی دو نیلی

رگیں۔
الحافۃ۔ جانب۔ طرف۔ سختی۔ حاجت

جر۔ حافات و حیفت۔
حافتا الوادی ونحوہ۔

وادی کے دونوں کنارے۔
حاق۔ (رن) حوقا۔ البیت۔

گھر میں بھاڑو دینا۔ الشیء۔
رگڑ کر چکنا کرنا۔ بھ۔

احاطہ کرنا۔ گھیرنا۔
حوق۔ علیہ۔ کسی سے گڑ بڑ کلام

کرنا۔ بے تعلق گفتگو کرنا۔
الحوق والحوقۃ۔ بڑا گردہ۔ بڑی

جماعت۔
الحوق۔ گھیرا۔ چوکھا۔

الحواقۃ۔ کوڑا کرکٹ۔ جھارن۔
الحوقۃ۔ جھاڑو۔ جر۔ محادوق

حوقل حوقلۃ و حیقلال۔ چلنے
سے ٹھنکا اور کمزور ہونا۔ کمزور اور

بوڑھا ہونا۔ الشیخ بوڑھے
کا چلنے میں اپنی کوکھ پر ہاتھوں سے

ٹیک لگانا۔ لا حول ولا قوۃ



الابا لله العلی العظیم کنا۔
 الحَوَّل - عمر سیدہ۔ بوڑھا۔
 الحَوَّلَة - مص۔ لمبی گردن کی شیشی۔
 حَاك (ن)، حَوَّكًا و حَيَاكًا - و
 حَيَاكَةً - الثوب۔ کپڑا بننا۔
 صفت (حَايَك، ج حَايَكَة و
 حَوَّكَة - مؤنث حَايَكَة - و
 حَايَك - ج - حَايَكَات و
 حَوَائِك - کہا جاتا ہے۔
 "حَاك الشاعر القصيدة"
 شاعر نے قصیدہ نظم کیا۔
 "وَحَاك الشيء في صدری"
 فلاں چیز میرے دل میں جم گئی۔
 مَا آحَاك سيفه - اس کی
 تلوار نے نہیں کاٹا۔ کہتے ہیں۔
 "ضربه فما آحَاك فيه
 سيفه" اس نے تلوار ماری مگر
 کارگر نہیں ہوئی (یہ ہمیشہ نفی ہی
 میں مستعمل ہوتا ہے)
 الحَوَّك - جنگلی ٹکسی۔ کہا جاتا ہے
 "هذا على حوك هذا" یہ اس
 کے ہم شکل و ہم عمر ہے۔
 المَحَاكَة - کھڑی۔ کارگاہ۔
 المَحْوَكَة - لٹائی۔ جنگ۔
 حَال (ن)، حَوَّلًا و حَوُّوْلًا -
 الشيء - ایک حالت سے دوسری
 حالت میں بدلنا - الحَوُّوْلُ
 سال گزرننا۔ پورا ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "حالت الدار و حیل" بھاء گھر
 پر بہت سے سال گزر گئے۔
 علیہ الحَوُّوْلُ - سال گزر جانا۔
 - القوس - کمان کا ٹیڑھا
 ہونا - العهد - زمانہ کا
 پلٹ جانا - الى مكان
 آخر - دوسری جگہ منتقل ہونا۔

— في ظهر الدابة۔
 جانوروں کی پیٹھ پر کود کر بیٹھنا۔
 — الشخص متحرك ہونا۔
 (ب) جبلة و محالًا (جبلہ کرنا
 (د) حَوُّوْلًا و حَيَاكًا)
 الرُنْثَى - حاملہ نہ ہونا۔
 المنخل - کھجور کا ایک سال
 بار آور ہونا اور ایک سال نہیں۔
 (ب) حَوُّوْلًا و حَوُّوْلًا و حَوُّوْلًا)
 بینہما۔ درمیان میں حائل ہونا
 حَوَّك (س)، حَوَّلًا - عینہ۔ آنکھ کا
 بھیگی ہونا۔ صفت (أَحْوَل)
 مؤنث حَوَّلَاء - ج - حَوُّوْل -
 حَوَّلَه تَحْوِيلًا - ایک جگہ سے دوسری
 جگہ منتقل کرنا۔ زائل کرنا۔
 حَوَّلَه اليه - الٹانا۔ پلٹ دینا
 - حَوُّوْل الرجل - منتقل ہونا۔
 حَوُّوْل الاسر - کسی زمین پر ایک سال
 بیج کاشت کرنا - الشيء -
 کسی چیز کو محال بنانا۔
 و أَحَال العين - آنکھ کو بھیگی کرنا
 حَاوَلَه مُحَاوَلَةً و حَوَّلًا - کسی
 سے کوئی شے حیلہ سے طلب کرنا۔
 - له البصر - گھور کر دیکھنا
 - الشيء - ارادہ کرنا۔ اور
 حیلہ سے طلب کرنا۔
 أَحَال - الله الحول - سال کا
 پورا کرنا۔ بالمكان - کسی جگہ
 ایک سال قیام کرنا - الرجل
 محال بات کہنا - الشيء
 کسی چیز پر کئی سال گزرننا۔
 أحال الغريم بدینه علی
 الآخر - قرض دوسرے پر اتارنا
 قرض دوسرے کے حوالہ کرنا۔
 صفت فاعلی (مُحِيل، پہلا


غريم (محال، دوسرا غريم (محال
 علیہ، مال (محال بہ - اور
 یہ فعل (حَوَّلَة) - آحَال
 عینہ۔ آنکھ کو بھیگی کرنا۔
 أَحَال علیہ الماء مِن
 الدلو - ڈول سے پانی انڈیلنا۔
 أَحَال علیہ بالسوط يضربه۔
 وہ کوڑے مارنے کے لیے اس کی
 طرف سٹا۔ آحَال في ظهر
 الدابة - جانور کی پیٹھ پر کود کر
 سوار ہونا۔ آحَال الامر
 علی فلان - کسی امر کو کسی پر
 موقوف رکھنا۔
 أَحَوَّل - الصبی - بچہ کا ایک سال
 کی عمر تک پہنچنا۔ کہا جاتا ہے۔
 "مَا أَحَوَّلَه و مَا أَحْيَلَه"
 اس کی حیلہ بازی کس قدر بڑی ہے
 "هو احول منك و احويل
 منك" وہ حیلہ سازی میں تم سے
 بڑھ چڑھ کر ہے۔
 تَحَوَّل - عنه - کسی سے پھر کر دوسرے
 کی طرف رُخ کرنا۔ الرجل -
 کسی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ
 منتقل ہونا۔ فی الامر -
 حیلہ و تدبیر سے کام شروع کرنا۔
 اِحْتَالَ اِحْتِيَالًا - حیلہ سے کام لینا۔
 - الشيء - ایک سال کا ہونا
 - علیہ الدین - قرض کو
 دوسرے کے ذمہ ڈالنا۔
 اِحْتَوَلَه - القوم - قوم کا کسی کو
 گمیر لینا۔
 احوَّل - عینہ۔ آنکھ کا بھیگی ہونا
 احوَّلَت - الارض - زمین کا سرسبز
 اور ہری بھری ہونا۔
 اِسْتَحَالَ اِسْتِحَالَةً - ایک حال سے



دوسرے حال کی طرف بدلنا۔
 محال ہونا — القوس۔
 کمان کا ٹیڑھا ہونا — فلان
 الشیء — کسی چیز کی طرف دیکھ کر
 پتہ لگانا کہ وہ حرکت کرتی ہے
 یا نہیں۔
 الحال — کیفیت۔ ہیئت۔ صفت
 (مذکر مؤنث) گرم راکھ۔ کالی مٹی
 ”حال متین الفرس“ گھوڑے
 کی پیٹھ کا وسطی حصہ۔ ج۔
 آحوال و آحوالہ۔
 حالۃ — الشیء۔ چیز کی حالت۔
 ج۔ حالات — حالات
 الدھر۔ انقلابات زمانہ گردش
 ملے ایام۔
 الحول۔ مص۔ قدرت۔ قوت۔ کہا
 جاتا ہے: ”لا حول ولا قوة الا
 باللہ“ نہ حرکت ہے نہ قوت مگر
 اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔
 ہوشیاری۔ دور بینی۔ سال۔
 ج۔ حوول و آحوال —
 الحوولی۔ ایک سال کا بچہ۔ ج۔
 حوالی۔ اور اسی سے ہے۔
 ”حوالیات زہیر“ وہ قصائد
 جن کے نظم کرنے، ترتیب دینے
 اور درست کرنے میں ایک سال
 کا عرصہ لگتا تھا۔
 الحول۔ ہوشیاری۔ دور بینی۔ تصرف
 پر قدرت۔ زوال و انتقال۔ کہا
 جاتا ہے: ”لا حول عنہ“ اس سے
 نہیں بچ سکتے۔
 الحول۔ بھیگنا پن۔
 حوول و حوولی و حووال و حوالی
 — الشیء او الشخص۔ چیز یا
 آدمی کا گرد گرد۔ کہا جاتا ہے۔

”قعد حوولہ وحولیہ وحوالہ
 وحوالیہ“
 الحووال و الحوولان و الحولان
 تغیر و تبدیلی۔ انقلاب۔
 الحوالی و الحوول و الحوولی۔ حیلہ
 باز۔ بہت حیلہ گر۔
 الحووال۔ دو چیزوں کے درمیان حاصل
 ہونے والی چیز۔
 حیال — الشیء۔ چیز کے سامنے یا
 مقابل۔ کہا جاتا ہے: ”قعد کل
 علی حیالہ“ ہر ایک الگ
 الگ بیٹھنا۔
 الحیلۃ و الحوکلۃ۔ ہوشیاری دور بینی
 تصرف کرنے پر قدرت۔ ج۔
 حیل و حوول۔
 الحوکلۃ۔ تعجب۔ امر منکر مصیبت
 کہا جاتا ہے: ”رجل حوکلۃ“
 آدمی بڑا حیلہ باز ہے۔ ”وہذا
 من حوکلۃ الدھر“ یہ عجائبات
 زمانہ میں سے ہے۔
 الحوول۔ بھیگنا۔ بڑا حیلہ ساز۔
 الحایل۔ رنگ بدلا ہوا۔ ایک سال
 کی عمر والا۔ بانجھ۔ کہتے ہیں۔
 امراۃ حائل و نخلۃ حائل۔
 ج۔ حوول و حوول و حیال و
 حوایل۔
 الحائلۃ۔ الحائل کا مؤنث۔ حیلہ
 کہا جاتا ہے: ”ما فیہ حائلۃ“
 اس میں کوئی حیلہ نہیں۔
 المحال۔ باطل۔ ٹیڑھا۔ غیر ممکن۔
 سراسر فساد کی بات۔
 المحوول۔ یک سالہ بچہ۔
 المخیل۔ من النساء۔ لڑکی کے
 بعد لڑکا یا لڑکے کے بعد لڑکی
 جننے والی عورت۔

المحاکلۃ۔ ہوشیاری۔ تصرف کی قدرت
 رہٹ۔ پیٹھ کا درمیان۔ ج۔
 محال و محاول۔ کہا جاتا
 ہے: ”لا محالۃ من الامر“
 مزوری امر یا شک و شبہ سے پاک
 المحوول۔ بہت محال باتیں کہنے والا۔
 المستحیل۔ لغو باطل کلام۔ بھرا ہوا
 المستحیلۃ و المستحالة
 من القسی۔ ٹیڑھی کمان۔
 من الارض۔ ایک سال یا کئی
 سال پر دت چھوڑی ہوئی زمین۔
 حام (ن) حووما و حوومانا —
 علی الشیء و حوولہ۔ ارد گرد
 پھرنا۔ الرجل۔ پیاسا ہونا
 صفت۔ (حائما) ج۔ حووم۔
 مؤنث۔ حائمتہ۔ ج۔ حوایل
 و حووم۔ (حووما و حیامنا
 و حوومنا)۔ حول غرضہ و
 علیہ۔ اپنے مطلب کے ارد
 گرد پھرنا۔ اور اس کو طلب کرنا۔
 حووم۔ فی الامر۔ کام میں لگا رہنا۔
 الحووم۔ سر کو چکرانے والی شراب۔
 حوومتہ۔ القتال ادا البحر او
 الرمل۔ وغیر ذلک۔
 لڑائی یا سمندری ریت کا بڑا حصہ۔
 — حوومتہ الموت۔ موت کا
 اچانک آنا۔
 حوومل۔ حوومتہ۔ پانی اٹھانا۔
 الحوومل۔ صاف سیلاب۔ سیاہ بادل۔
 تحوون۔ الرجل۔ آدمی کا ذلیل
 ہونا۔ ہلاک ہونا۔
 حوی (س) حوی و احووی۔
 احواء و احوادی و احویاء
 سبزی مائل سیاہ یا سیاہی مائل سرخ
 ہونا۔ صفت (احوی) مؤنث



حَوَاءٌ. ج. حَوَوٌ.
 حَوَى (رض) حَوَايَةً وَحَبَبًا.
 الشَّيْءُ. جمع کرنا۔ حَوَاة
 تَحْوِيَةً۔ قبضہ کرنا۔
 تَحْوَى۔ سکرنا۔ گول ہونا۔
 الحَبِيَّةُ۔ سانپ کا کنڈلی مارنا۔
 الشَّيْءُ۔ قبضہ کرنا۔
 اِخْتَوَى۔ اِخْتَوَاءً۔ الشَّيْءُ وَعَلَيْهِ۔
 جمع کرنا۔
 الْحَاوِي۔ فَا۔ سانپ پر منتر پڑھنے والا۔
 مُؤَنَّثُ حَاوِيَةٍ۔ ج. حَاوِيَاتٍ
 وَحَوَائِرُ۔
 الْحَوَاءُ وَالْحَوَاةُ۔ آواز۔
 الْحَوِيَّ۔ استحقاق کے بعد مالک ہونے
 والا۔ چھوٹا حوض۔
 الْحَوَاءُ۔ پاس پاس گھروں کا مجموعہ۔
 ج. أَحْوِيَّةٌ۔
 الْحَوِيَّةُ۔ الْحَوِيَّ کا مؤنث۔ انٹری
 چھوٹا حوض۔ بھوسہ گھاس بھری
 ہوئی گدی۔ جو اونٹوں کے کوبان
 کے ادھر ادھر ڈالتے ہیں۔ ج.
 حَوَايَا۔ اور اسی سے یہ مثل
 مشور ہے۔ الْمَنَايَا عَلَى الْحَوَايَا
 یہ مثل اس کے لیے بولی جاتی ہے
 جو اپنی موت کے لیے خود کوشش
 کرے۔
 الْحَوَاءُ۔ سانپوں کا جمع کرنے والا۔
 حَيْثُ۔ طرف مکان۔ مبنی برضہ۔ بمعنی
 کہاں۔ گجا۔ چونکہ۔ کہا جاتا ہے۔
 "مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ" یعنی
 اس وجہ سے اور اس اعتبار سے۔
 حَيْثُ۔ زمان کے لیے بھی آتا ہے۔
 حَاجَ (رض) حَيْجًا۔ محتاج ہونا۔
 أَحَاجَ وَأَحْيَجَ۔ امکان
 کسی جگہ کا کائنات اگانا۔

حَادَ (رض) حَيْدًا وَحَيْدَانًا۔
 وَحَيْدًا وَحَيْدَةً وَحَيْوَدًا۔
 وَحَيْوَدَةً۔ عَنِ الطَّرِيقِ
 راستہ سے الگ ہونا۔ ہٹنا۔
 حَيْدَةً۔ گرہ پر کر دینا۔ حَيْدَ
 السَّيْرِ۔ تسمہ میں گرہ لگانا۔
 حَايِدَةٌ۔ مُحَايِدَةٌ وَحَيَادًا۔
 ایک جانب ہونا۔ علیحدہ ہونا۔
 الْحَيْدُ۔ چیز کا اٹھا ہوا اور ابھرا ہوا
 حصہ۔ پہاڑ کا نکلا ہوا کنارہ۔
 پہاڑی بکرے کے سینگ کی گرہ۔
 ج. حَيْوُدٌ وَحَيْدٌ وَأَحْيَادُ۔
 (۔ وَالْحَيْدُ) مثل ونظیر۔
 الْحَيْدَةُ۔ پہاڑی بکرے
 کے سینگ کی گرہ۔
 الْحَيْدِيُّ۔ متکبرانہ چال۔
 الْحَيْدَانُ۔ وہ کنکر، پتھر جو جانور کے
 چلنے سے اڑتے ہیں۔
 الْحَيْدُ۔ حَادٌ کا اسم ظرف۔ الگ
 ہونے کی جگہ۔
 حَارَ (رض) حَيْرًا وَحَيْرَةً۔ وَ
 حَيْرَانًا وَحَيْرًا۔ الْمَاءُ
 پانی کا بند نہ ہونے سے پھر لگانا۔
 الرجل۔ آدمی کی نظر کا چکا
 چوند ہونا۔ راستہ کم کرنا۔
 فِي امْرَةٍ۔ اپنے امر میں حیران
 ہونا۔ صفت (حَيْرَانُ)
 مُؤَنَّثُ حَيْرِي۔ ج. حَيْرَارِي
 وَحَيْرَارِي
 حَيْرَةٌ۔ حیرانی میں ڈالنا۔
 تَحْيَرٌ۔ الْمَاءُ۔ پانی کا جمع ہو کر
 پھر لگانا۔ امکان بالماء۔
 کسی جگہ کا پانی سے بھر جانا۔
 (۔ وَاسْتَحَارَ) حیرت میں
 پڑنا۔ استبحار المكان و

بالمكان۔ چند دن کے لیے کسی
 جگہ اترنا۔ السحابُ۔ بادل
 کلبے حرکت ہونا۔ کسی جانب متوجہ
 نہ ہونا۔
 الْحَيْرُ۔ رکھت۔ باغ
 الْحَيْرُ وَالْحَيْرُ۔ بہت اہل و مال
 کہا جاتا ہے۔ "لَا أَتِيهِ حَيْرٌ دَهْرٌ"
 میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔
 الْحَارَةُ۔ محلہ۔
 الْحَايِرُ۔ فَا۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔
 کنارے اٹھی ہوئی نشیبی زمین
 ج. حَوَرَانٌ وَحَيْرَانُ۔
 الْحَارَةُ۔ سیپی۔ ج. مَحَارِبُ۔ پانی
 جمع ہونے کی جگہ۔ الْحَارَاتَانِ
 سرین کے وہ دونوں گول سرے جن
 میں رانوں کے سرے گھومتے ہیں۔
 الْحَيَارُ۔ بہت حیران۔
 الْمُتَحَيَّرَاتُ۔ کواکب سیارہ۔ واحد
 (مُتَحَيِّرٌ)
 الْمُسْتَحْيِرُ۔ صحر کے عرض میں راستہ
 جس کے جائے خروج کا پتہ نہ لگے
 بوجھل بے حرکت بادل جس کو ہوا
 نہ چلائے۔
 حَارَ (رض) حَيْرًا۔ الْاِبِلُ۔ اونٹ
 کو ہٹلانا۔ چلانا۔
 تَحْيَرٌ۔ الشَّيْءُ۔ کسی ایک ہی جگہ
 میں منحصر ہونا۔ الْحَيْةُ
 سانپ کا کنڈلی مارنا۔
 الْحَيَزُ۔ دیکھئے مادہ ح وز۔
 حَاسَ (رض) حَيْسًا۔ الشَّيْءُ مَرَّ لَانَا
 الْحَبْلُ۔ رسی ہٹنا۔
 (۔ وَحَيْسَ) الْحَيْسُ
 حیس بنانا۔ کہتے ہیں "حیس
 حَسِبْهُمْ" ان کی ہلاکت قریب
 آ پہنچی۔

مُؤَنَّثٌ - حَيَاكَةٌ وَحَيَاكَةٌ -
 دِجِيكِي - (ر - وَاحَاك) -
 السَّيْفُ - تلوار کا کاٹنا -
 السَّيْفُ اَوِ الْكَلَامُ فِيهِ -
 تلوار یا کلام کا کسی میں اثر کرنا -
 احْتَاكَ - احتیثا گنا - بشوبہ
 کپڑے میں لپٹنا - مشیہ
 حِيَكِي - متکبرانہ چال -
 حَالٌ (ض) حَيُولٌ - الشَّيْءُ مُتَغَيِّرٌ
 ہونا بدل جانا - الماء -
 پانی کا وادی میں جمع ہونا -
 الْحَيْلُ - قوت - وادی میں جمع شدہ پانی
 ج - اَحْيَالٌ وَحَيُولٌ -
 الْاَحْيَالُ وَالْاَحْيَالُ - بہت حیل باز
 الْحَيْلَةُ - ہوشیاری - دور بینی - کاموں میں
 تصرف کی قوت - ج - حَيْلٌ -
 الْحَيْلَةُ - بھیڑوں و بکریوں کا ریوڑ -
 حیلہ گرمی -
 الْحَيْلَانُ - غلہ کا بننے کا آلہ -
 حَانَ (ض) حَيْنًا وَحَيْنُونَةً -
 الشَّيْءُ - کسی چیز کا وقت قریب
 آنا - - فُلَانٌ -
 ہلاک ہونا یا سنج و مشقت میں پڑنا
 توفیق سے محروم ہونا - حَانَ
 لَهُ اَنْ يَفْعَلَ كَذَا - کسی کام
 کا وقت قریب آنا - السَّنْبِلُ
 بالی کا خشک ہونا اور اس کی کٹائی
 کا وقت قریب آنا -
 حَيَّيْنَهُ - وقت مقرر کرنا -
 اللَّهُ فُلَانًا - نیکی کی توفیق نہ دینا -
 حَايَنَهُ - وقت معین کے لیے معاملہ
 کرنا -
 اَحْيَيْنَا اَحْيَانًا - الرجلُ اَوْ
 الشَّيْءُ - وقت آپہنچنا -
 بِالْمَكَانِ - کچھ دیر کے لیے کسی جگہ

حَيَّعَل - الْمُؤَذِّنُ - مُؤَذِّنٌ كَا
 حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ - حَتَّى عَلَى
 الْفَلَاحِ - کہنا -
 حَاثٌ (ض) حَيْثًا - عَلَيْهِ - کسی
 پر ظلم و زیادتی کرنا - صفت
 (حَايَيْتُ) ج - حَيْثٌ وَحَيْثٌ
 وَحَاثَةٌ -
 تَحْيَيْتُ - الشَّيْءُ - چیز کو اطراف
 سے گھٹانا -
 الْحَايْتُ - فَا - حَاثٌ الْجَبَلِ -
 پہاڑ کا کنارہ -
 الْحَيْفَةُ - کنارہ - گوشہ - قیص کے
 دامن میں کپڑے کا لگایا ہوا بیوند
 شکار کے واسطے ہنکایا ہوا جانور
 ج - حَيْفٌ -
 الْأَحْيَفُ - مِنْ اَلْمَكْنَةِ وَه
 جگہ جہاں بارش نہ ہو - مؤنث -
 حَيْفَاءُ -
 حَاقٌ (ض) حَيْقًا وَحَيْوَقًا - وَ
 حَيْقَانًا وَآحَاقٌ اِحَاقَةً -
 - بہ - گھیرنا - احاطہ کرنا -
 حَاقٌ بِهَمِّ الْاَمْرِ - اِنْ پُر وہ
 امر لازم ہوا - واجب ہوا -
 بِهَمِّ الْعَذَابِ - عذاب نازل
 ہونا - فِيهِ السَّيْفُ - تلوار
 کا اثر کرنا - نِشَانِ طَالَا -
 آحَاقٌ - الشَّيْءُ بِكَذَا - عَذَابٌ طَالَا
 حَايَقَهُ - مُحَايَقَةً - کسی سے حسد
 کرنا - بعض رکھنا -
 اِحْتَاَقٌ - عَلَى الشَّيْءِ - احتیاط کرنا -
 الْحَيْقُ - مِرْكَاتٌ عَمَلٌ - کام کا نتیجہ بد
 الْحَيْقُلُ - خیر و بھلائی سے خالی آدمی -
 حَاكَ (ض) حَيْكًا وَحَيْكَانًا -
 متکبرانہ چال چلنا - اینٹھ کر چلنا -
 صِفَتُ (حَايَكَ وَحَيَاكَ)

الْحَيْسُ - مَص - کھجور گھی اور ستو
 سے تیار کیا ہوا کھانا - کچا ردی کام
 الْحَيُّوسُ - وہ جس کا باپ غلام ہو اور
 اس کی ماں چھو کری - غلام زادہ -
 حَاثِلُهُ (ض) حَيْثًا - گھبراہٹ
 میں ڈالنا - حَاثٌ مِنْهُ گھبرانا
 - الرَّجُلُ بِلَدِي كَرْنَا -
 الْوَادِي - وادی کا دراز ہونا -
 تَحْيَيْشٌ - گھبرانا -
 الْحَيْشَانُ - بہت گھبرانے والا -
 خوفزدہ -
 حَاصٌ (ض) حَبِصًا وَحَبِصَةً وَ
 حَبِصًا وَمَحَبِصًا وَحَبِصَانًا -
 وَاحْصًا وَتَحْصِيصًا - عَنْ كَذَا -
 الگ ہو جانا - بچنا - ہٹنا - کہتے
 ہیں - مَنْ حَاصٌ عَنِ الشَّرِّ
 سلمہ جو برائی و شر سے الگ رہا
 وہ محفوظ رہا - وَوَقَعَ فِي حَبِصٍ
 بَبِصٍ اَوْ فِي حَبِصٍ بَبِصٍ - وہ
 ایسی پیچیدگی میں پھنسا کہ جس سے
 خلاصی کا کوئی راستہ نہیں -
 حَايَصَهُ - غَالِبَ اَنَا - فریب دینا -
 - دَائِلَةٌ (حَبِصُ) - بدکنے
 والا - چکنے والا جانور
 الْحَبِصُ - بھاگنے کی جگہ - پناہ -
 حَاَصَتْ (ض) حَبِصًا وَتَحْيِصًا -
 وَتَحَاَصًا وَتَحْيِصَتْ -
 الْمَرْأَةُ - عورت کا ماہواری خون
 جاری ہونا - صِفَتُ (حَايَصُ) وَ
 حَايَصَةٌ - ج - حَبِصٌ وَ
 حَوَايِصُ -
 حَبِصٌ - الْمَاءُ - پانی بہانا -
 الْحَبِصُ - حَبِصٌ كَانُونٌ -
 الْحَبِصَةُ وَالْمَحَبِصَةُ - حَبِصٌ
 کا چنیٹا -



<p>بعضی جلدی کرو متوجہ ہو۔ کہا جاتا ہے حی علی الصلوٰۃ نماز کے لیے آؤ (حی هل، بفلان۔ فلاں کو بلاؤ۔ الحیاء والحیا۔ بارش، جڑوتا زگی۔ سبزی۔ الحیا۔ شرم و حیا۔ کسی چیز سے منقبض ہونا۔ اور ملامت کے خوف سے اس کو چھوڑ دینا۔ بارش۔ سرسبزی۔ الحیاۃ۔ زندگی۔ الحیۃ۔ زندہ۔ نسبت کے لیے حیوی۔ مؤنث حیۃ۔ ارض حیۃ۔ سرسبز و شاداب زمین۔ کہا جاتا ہے: لَا يعرف الحي من التي یعنی وہ بیوقوف ہے۔ الحی۔ محلہ۔ قبائل عرب میں سے چھوٹا قبیلہ ج۔ احیاء۔ الحیۃ۔ سانپ (مذکورہ) ج۔ حیات و حیوانات الحیوت۔ نرساںپ۔ الحي والحي۔ شرمیلا۔ الحیوان۔ جاندار۔ ج۔ حیوانات المستحيۃ۔ چھوٹی موٹی۔ الحیا۔ شرم کا موقع۔ ج۔ محای۔ زندگی المحیا۔ چہرہ۔</p>	<p>حیاء تَحِيَّةٌ کسی کو حَيَّاكَ اللہ کہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے۔ سلام کرنا۔ حَيَّاكَ اللہ اللہ اس کو باقی رکھے۔ کہا جاتا ہے ”حَيَّا الْخَمْسِينَ مِنْ عُمْرِهِ“ وہ اپنی عمر میں پچاس کے قریب پہنچا۔ حَيَاةٌ مُحَايَاةٌ۔ الصبی۔ بچہ کو غذا دینا۔ زیداً۔ شرم وغیرت دلانا ۔ الناس۔ آگ سلگانا۔ أَحْيَاہُ۔ زندہ کرنا۔ النار۔ پھونک مار کر آگ سلگانا۔ الارض زمین کو سرسبز بنانا۔ الراءد الارض۔ گھاس پانی تلاش کرنے والے کا زمین کو سرسبز بنانا۔ اللیل رات کو جاگتے رہنا۔ جاگ کرات گزارنا۔ أَحْيَاہُ وَلَا سَتَحْيَاہُ۔ زندہ چھوڑنا۔ لَا سَتَحْيَاہُ وَلَا سَتَحْيَاہُ۔ منہ۔ شرم کرنا شرمندہ ہونا۔ منقبض ہونا۔ لَا سَتَحْيَاہُ وَلَا سَتَحْيَاہُ۔ منہ۔ منقبض ہونا۔ باز رہنا۔ حَيَّ وَحَيَّ هَلَا وَحَيَّ هَلَا اسم فعل</p>	<p>اقامت کرنا۔ أَحْيَاہُ۔ اللہ ہلاک کرنا۔ تَحْيَيْنَ۔ منہ غفلت۔ کسی کی غفلت کی تاک میں رہنا۔ کہتے ہیں ہو يَتَحَيَّنَ طَعَامَ النَّاسِ وہ لوگوں کے کھانے کے وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ توفیق و ہدایت سے محروم ہونا۔ لَا سَتَحْيَاہُ۔ مناسب وقت کی امید رکھنا۔ الْحَيَّ وَالْحَيَاةَ۔ شراب پیچنے کی دکان۔ الْحَيَّ۔ ہلاکت۔ رنج و محنت۔ الْحَيَّ۔ وقت۔ ج۔ أَحْيَان۔ جب أَحْيَاہُ۔ الْحَيَّةُ وَالْمَحْيَا۔ وقت۔ الْحَيَّ۔ فا۔ احمق۔ الْحَيَّةُ۔ مصیبت۔ ج۔ حَوَائِن حَيَّ (س) حَيَاةٌ۔ زندہ رہنا۔ اور حَيَّ يَتَحَيَّ۔ ادغام کے ساتھ بھی آتا ہے (حیاء) منہ۔ شرمندہ ہونا۔ شرماتا۔ الطريق راستہ کا نمایاں ہونا۔</p>
---	---	--

خ

<p>خَبَبٌ لَحْمَةٌ۔ گوشت کے کم ہونے کی وجہ سے کھال پر جھریاں پڑنا۔ أَخْبَتِ۔ الفرس۔ گھوڑے کو دو گام چلانا۔ خَبَبٌ۔ چال چلانا۔ الْخَبَبُ۔ مص۔ دغا باز۔ فتنہ و فساد قطعہ زمین ریت۔ دوست زمینوں کے درمیان نرم قطعہ زمین۔ ج</p>	<p>پر۔ کہتے ہیں۔ مَسْغِي خَبَبًا۔ (خَبَبًا وَخَبَبًا) البحر۔ سمندر کا جوش میں آنا۔ خَبَبٌ (س) خَبَبًا وَخَبَبًا۔ دغا باز و مکار ہونا۔ خَبَبِيہ۔ دھوکا دینا۔ خراب کرنا۔ کہتے ہیں۔ خَبَبٌ عَلَى فَلَانٍ صَدِيقِيہ۔ یعنی اس نے فلاں کے دوست کو خراب کر دیا۔</p>	<p>خَبَبٌ (ن) خَبَبًا۔ الذَّبَابُ نبا تاں کا بلند ہونا۔ دراز ہونا۔ کسی کا اپنی چیز کو روکنا۔ بخل کے باعث بے پتہ رہنے کی غرض سے پست زمین میں اترنا۔ (د) خَبَبًا وَخَبَبًا۔ وَاخْتَبَتِ الْفَرَسُ فِي عَدْوِہ گھوڑے کا دوڑنے میں کبھی اگلی ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔ اور کبھی پچھلی</p>
---	--	--

جُبُوب - کہتے ہیں "اَصَابَهُمُ
الْخُبُّ" ان کو آندھی کے
جھونکوں اور موجوں کے پھیلنے
نے گھیر لیا۔

الْخُبُّ - پست زمین۔ درخت کی
چھال۔ ج۔ خُبُوب۔ اَخْبَاب
الْخُبَّة - بتثلیث الخاء۔

ریت کا لمبا قطعہ یا بدلی کی دھاری
پٹی کی طرح کپڑے کا ایک چیتھڑا
— الْخُبَّة - پانی کے جمع ہونے
کی جگہ۔ وادی کا نشیبی وسطی حصہ
گوشت کا دراز پارچہ —

قُبُوب (خُبُّوب و خَبَاب و
اَخْبَاب) پھٹے پرانے کپڑے
تعداد اجزاء کی وجہ سے اس
کی صفت میں جمع لانا جائز رکھا
گیا ہے۔

الْخُبَّة - ریت یا بدلی کی دھاری۔
گوشت کا ٹکڑا۔ وادی کا درمیانی
حصہ۔ ج۔ خَبَاب۔

الْخَبَاب - دغا باز۔ فریبی۔
الْمَخْبَّة - وادی کا وسطی حصہ۔
خَبَاء - (ف) خَبَاء و خَبَاء۔
الشَّيْء - چھپانا۔

خَابَاء - کسی سے چستان اور
پسلی کہنا۔

اِخْتَبَاء - منہ۔ چھپنا —
الشَّيْء - چھپانا۔ کہا جاتا ہے
"اِخْتَبَاء - لَهُ خَبِيْثًا" اس
نے اس سے کوئی شے پوشیدہ
رکھ کر اس کے بارہ میں اس سے
سوال کیا۔

الْخَبُّ وَالْخَبِيْ - پوشیدہ۔ چھپائی
ہوئی شے۔

خَبُّ الارض - زمین کی نباتات۔

— خَبُّ السَّمَاء - بارش

کہتے ہیں "اُخْرِجَ خَبُّ السَّمَاءِ
خَبُّ الارض - آسمان کی بارش
نے زمین پر روئیدگی پیدا کی۔

ظاہر کی اور پودوں کو اگایا۔
الْخَبَاء - اونٹوں کی پشم یا اون یا
بالوں کا خیمہ۔ ج۔ اَخْبِيَّة۔

الْمَخْبِيَّة - پوشیدہ رکھی ہوئی چیز۔
ج۔ خَبَايَا۔

الْخَابِيَّة وَالْخَابِيَّة - بظلمٹکا۔
ج۔ الْخَوَابِي وَالْخَوَابِي۔

بَنَتْ الْخَابِيَّة - شراب
الْمَخْبِيَّة - بیٹی۔

الْمَخْبَاء - چھپنے کی جگہ۔
خَبَّتْ (ض) خَبَّتَا — ذکرہ۔

پر چامٹ جانا۔
اَخْبَتَ — الْقَوْم - قوم کا پست

اور فراخ زمین میں اترنا —
اِلَى اللّٰهِ - خدا تعالیٰ کے سامنے

عاجزی کرنا۔
الْخَبَّة وَالْخَبَّة - تواضع۔ فروتنی

عاجزی۔ پستی۔
الْمَخْبِيَّة - حقیر۔ بری چیز۔ کہتے ہیں

"هُوَ خَبِيْثُ النَّفْسِ" وہ شکستہ
دل آدمی ہے۔

خَبَّتْ (ن) خَبَّتَا وَخَبَّتَا —
خَبَاتِيَّة - پلید و ناپاک ہونا۔

صفت (خَبِيْث) - ج۔
خُبْتُ وَخَبَّتَا وَاَخْبَاتُ

— وَخَبَّتَا — خَبَّتُ
نفسہ۔ جی کا مٹلانا۔

بِالْمَرَاةِ - زنا کرنا۔
خَبَّتْ (ن) خَبَّتَا - ردی ہونا۔

مکرار ہونا۔ (د) وَ اَخْبَتَا
بروں کے ساتھ رہنا —

وَ اَخْبَتَا - کسی کو برائی سکھانا۔
خراب کرنا۔ کسی کو برائی کی طرف
منسوب کرنا۔

خَبَّتَا - غیبت بنانا — الطَّعَامُ
کھانے کو ناگوار بنانا۔

تَخَابَتَا - برائی اور شرارت کو
ظاہر کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا

تَخَبَّتَا - بتکلف شرارت کرنا۔
اِسْتَخَبَّتَا - شرارت کرنا۔ خباثت

کرنا — کسی کو غیبت
پانا۔

الْخَبْتُ — مِنَ الْحَدِيدِ وَغَوِ
لوہے وغیرہ کا میل۔ سونے

چاندی لوہے وغیرہ کا کھوٹ۔
بے فائدہ چیز۔

خَبَاتٌ - بڑزن قطام —
خَبِيْثَة سے معدول ہے۔ من

نداک کی شکل میں عورت کو گالی
دینے کے لیے آتا ہے۔ مثلاً

کہتے ہیں "يَا خَبَاتِ" اے
بدکار عورت۔

خَبْتُ - خَبِيْث سے معدول ہے۔
یہ مرد کو گالی دینے کے لیے صرف

نداک کی شکل میں آتا ہے۔ مثلاً
کہتے ہیں "يَا خَبْتُ" اے

بدکار مرد۔
الْخَبِيْث - نجس۔ ردی۔ ناپسندیدہ

ہر حسام چیز۔ ہر خراب چیز۔
ج۔ خُبْتُ وَ خَبَّتَا - و

اَخْبَاتُ وَ خَبَّتَا - مؤنث۔
خَبِيْثَة - ج۔ خَبِيْثَات

وَ خَبَاتِيْ
الْخَبَاتِيْ - برے کام۔ وہ چیزیں جن

کو عرب ناپاک و نجس جان کر
نہیں کھاتے تھے۔ جیسے سانپ



گبریا وغیرہ۔
 الْآخْبَان - پیشاب۔ پاشخانہ۔
 الْخَبِيثُ - بڑا خبیث۔ بڑا شریر۔
 - الْخَبِيثِي - برائی۔ پلیدی۔
 الْمَجْبُثَةُ - سبب فساد۔ مضر چیز۔
 کہتے ہیں "الکفر مخبثہ
 لنفس المنعمہ" ناشکری عین
 کے دل کو خراب و فاسد کرنے کا
 سبب بنتی ہے۔
 خَبَجَهُ (ن)، خَبَجَا - بِالْعَصَاءِ
 لاجھٹ سے مارنا۔ الرجل۔
 گوز کرنا۔ پادنا۔
 الخبیر والخباجا - احمق۔
 الخبیر والخباج - پاد۔ گوز۔
 خَبَجَبَ - الرجل۔ ڈھیلے
 پیٹ والا ہونا۔ بے وفائی کرنا۔
 تَخَبَجَبَ - الشئ المضطرب
 ڈھیلہ ہونا۔ بَدَنَهُ - بدن
 کا موٹاپے کے بعد دبلا و لاغر
 ہونا۔ الْحَرُّ - گرمی کی شدت
 کا کم ہونا۔
 خَبَرَن، خَبَرًا - وَخَبَرَةً
 الشئ - کسی چیز کو تجربہ سے
 جان لینا۔ آزمانا۔
 خَبَرَن، خَبَرًا - الارض۔
 کھیتی کے لیے زمین جوتنا۔
 الطعام - کھانے کو مرغن کرنا۔
 خَبَرَن، وَخَبَرَن، خَبَرًا
 وَخَبَرًا وَخَبَرَةً وَخَبَرَةً
 مُخَبَّرَةً وَمُخَبَّرَةً -
 الشئ و بہ - کسی چیز کی حقیقت
 و ماہیت سے واقف و باخبر
 ہونا۔
 خَبَرَهُ وَآخَبَرَهُ - الشئ و
 بالشئ - کسی کو کسی شے سے

آگاہ کرنا۔ خبردار کرنا۔ کہتے
 ہیں "آخَبَرَهُ خَبْرًا" یعنی
 جو چیز اس کے پاس تھی، اس
 کی اس نے اطلاع و خبر دی۔
 خَابَرَهُ - بٹائی پر کھیتی کرنا۔ پروا
 کرنا۔ بقول بعض باہم گفتگو کرنا۔
 اور بحث کرنا۔
 تَخَابَرُوا - ایک دوسرے کو خبر دینا۔
 تَخَبَّرُوا - الْأَمْر - کسی امر سے
 اچھی طرح واقف ہونا۔
 تَخَبَّرَهُ وَاسْتَخَبَرَهُ - کسی سے خبر
 دریافت کرنا۔
 أَخْبَرَ - الشئ - تجربہ کرنا۔
 آزمانا۔ امتحان لینا۔ حقیقت
 حال سے واقف ہونا۔
 لاهلہ - اپنے گھر والوں کے
 لیے کھانا لینا۔
 الْخَبْرُ - بڑا توشہ دان۔ بہت
 دودھ دینے والی اونٹنی۔ کھیتی
 پہاڑ میں پانی جمع ہونے کی جگہ۔
 بیری یا ارک کا درخت اور
 اس کے آس پاس کی گھاس
 واحد (خَبْرَةٌ) ج۔
 خُبُوس۔
 الْخَبْرُ - بڑا توشہ دان۔ بہت
 دودھ دینے والی اونٹنی۔
 الْخَبْرُ - مص - علم۔ تجربہ۔ آزمائش
 کہتے ہیں "صَدَّقَ الْخَبْرُ"
 الْخَبْرُ "تجربہ اور مشاہدہ نے
 سنی ہوئی خبر کی تصدیق کی۔
 رجل خبر وخبر - خبر کا
 جاننے والا۔
 الْخَبْر - خبر ج۔ اَخْبَار وَاخْبَارِید -
 الْأَخْبَارِی - مورخ۔ تاریخ تصنیف
 کرنے والا۔

الْخَبْرَاء - بڑا توشہ دان۔ بیری کے
 درخت اگانے والی زمین۔ ج
 خَبَارِی وَخَبَارِ وَخَبَرَا دَات -
 الْخَبْرَةُ - مص۔ وہ بکری جس کو
 لوگ مختلف قیمتوں پر لیں۔ پھر
 اس کو آپس میں بانٹ لیں۔ ہر
 ایک کو اپنی ادا کردہ قیمت کے
 مطابق حصہ ملے۔ زیادہ خرید۔
 اہل و عیال کے لیے خریدی ہوئی
 خوراک۔ کہتے ہیں "اجتمعوا
 علی خَبَرَتہ" وہ اس کے کھانے
 پر جمع ہوئے۔ سالن۔
 الْخَبَاس - نرم زمین۔ جڑیں۔ واحد
 خَبَارَةٌ -
 الْخَبِير - واقف۔ آگاہ۔ دانا۔ کسان
 ج۔ خُبَرَاء - کھیتی۔ اونٹ
 کے بال۔ گرے ہوئے بال۔ واحد
 (خَبِيرٌ) ج۔ خَبَائِر -
 الْخَبِير - اونٹ کے منہ کے
 جھاگ۔
 الْخَابُوس - ایک قسم کا درخت۔
 راس العین اور فرات کے درمیان
 ایک ندی کا نام۔
 الْمَخْبَرُ وَالْمَخْبَرَةُ وَالْمَخْبَرَةُ -
 وہ واقفیت یا آگاہی جو خبر یا
 تجربہ سے حاصل ہو۔
 خَبَرٌ - دمن، خَبَرًا - الْخَبْرُ - روٹی
 پکانا۔ الْقَوْمَ - روٹی کھلانا۔
 کہا جاتا ہے "خبز تهمد و
 تهمد تهمد" میں نے ان کو روٹی
 اور کھجور کھلائی۔
 خَبَرَةٌ وَتَخَبَّرَةٌ - مارنا۔
 اِنْخَبَرُوا - المکان۔ جگہ کا پست ہونا
 اِخْتَبَرُوا - الْخَبْرُ - روٹی پکانا۔
 الْخَبْر - روٹی۔ خَبْرُ الْغَرَاب

ایک قسم کی بوٹی جس میں گول گول ٹکلیں روٹی کے مانند نکلتی ہیں۔
 الْخَبِيزُ - پست و نشیبی جگہ۔
 الْخَابِيزُ - فا۔ روٹی والا۔
 الْخَبِيزُ - پکی ہوئی روٹی۔ ثرید۔
 الْخَبَانَةُ - نانباتی کا پیشہ۔
 الْخَبَانَةُ - نانباتی۔
 الْخَبَازِي - وَالْخَبَازُ وَالْخَبِيزُ وَالْخَبَازَةُ خَبَازِي - جو ایک دوا ہے۔
 خَبَسَ (ن) خَبَسًا وَ اخْتَبَسَ - وَ تَخَبَسَ الشَّيْءُ - لے لینا۔ غنیمت حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے -
 وَ خَبَسَ فُلَانٌ حَقَّهُ - فلاں نے ظلم سے اس کا حق چھین لیا۔
 اخْتَبَسَ - مالا۔ اس کا مال جاتا رہا۔
 الْخَبَاسُ وَالْخَبَاسُ الْمُخْتَبَسُ - شیر الْخَبُوسُ - غیر ظلم کرنے والا۔
 الْخَبَاسَةُ - ظلمتالی ہوئی چیز - (د) وَالْخَبَاسَاءُ - غنیمت خَبَسَ (ن) خَبَسًا وَ تَخَبَسَ -
 - الْاَشْيَاءُ مِنْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا - ادھر ادھر سے چیزیں حاصل کرنا اور جمع کرنا۔
 خَبَاسَاتُ - الْعَيْشُ - زندگی کی ضروریات مثلاً کھانا۔ کپڑا وغیرہ جو ادھر ادھر سے جمع کی جائیں۔
 خَبَاسَاتُ - النَّاسُ - مختلف قوموں کی جماعت یا پارٹی۔
 خَبَصَ (مَنْ) خَبَصًا - الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ - ایک چیز کو دوسری سے ملانا۔
 (خَبَصَ تَخَبَصَ وَ اخْتَبَصَ) - کھجور بالائی اور میدہ کا صلوہ بنانا۔
 الْخَبِيسُ وَالْخَبِيسَةُ - کھجور بالائی

اور میدہ سے تیار کی ہوئی مٹھائی یا صلوہ۔
 الْخَبِيسَةُ - کڑا ہی میں خبیص صلوے کو الٹ پلٹ کرنے کا خچہ۔
 خَبَطَهُ (مَنْ) خَبَطًا - زور سے مارنا۔
 - الشَّيْءُ - سخت روندنا۔ کچلنا۔
 - اللَّيْلُ - رات کو بے راہ چلنا کہا جاتا ہے - لَا تَهْ يَخْبَطُ خَبَطًا عَشَوًا - وہ اندھی اونٹنی کی طرح پاؤں مارتا ہے۔ یعنی بغیر غور و فکر کے کام کرتا ہے - "وَمَا اَدْرِى اِنِّى خَابَطُ لَيْلٍ هُوَ" میں نہیں جانتا کہ وہ اجنبی رات کو آنے والا کون ہے۔ الشَّيْطَانُ زَيْدًا - شیطان آدمی کو خبیطی و دیوانہ کر دینا - هُ بَخْبِيرُ - کسی کو بغیر جان پہچان کے دینا۔
 - الْبَعِيرُ - اونٹ کے چہرہ کی چوڑائی میں لمبا داغ لگانا۔
 الشَّجَرَةُ - درخت کے پتے جھاڑنا۔
 خَبَطَ زَكَامَ هَوْنًا - صفت (مَنْ) خَبَطَ تَخَبَطَهُ زور سے مارنا۔ الشَّيْطَانُ زَيْدًا - دیوانہ کر دینا۔ الْبِلَادُ مُلْكٌ فِي فِتْنَةٍ وَ فساد، لوٹ مار مچنا۔
 تَخَبَطَ - الشَّيْءُ - روندنا۔ کچلنا۔
 اخْتَبَطَهُ زور سے مارنا - اخْتَبَطَتِ الْبِلَادُ - ملک میں فتنہ و فساد برپا ہونا۔
 الْخَبَطُ - درخت کے جھاڑے ہوئے پتے الْخَبَطَةُ - زکام۔ تالاب یا برتن میں بقیہ پانی۔ مشک میں بقیہ دودھ۔ حقیر چیز۔ دیوانگی۔ جہ۔ خَبَطَ وَ خَبَطَ - کہا جاتا ہے - "علیہ خبطة من الجمال۔ اس پر

خوبصورتی کا اثر ہے۔
 الْخَبَطَةُ ہر چیز کا کچھ حصہ۔ کہا جاتا ہے "كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ خَبَطَةٍ مِنَ اللَّيْلِ" - یہ رات کے کچھ حصہ کے بعد ہوا۔ الْخَبَطَةُ مِنَ الْمَاءِ - پانی کا گھونٹ۔ جہ۔ خَبَطَ - الْخَبَاطُ - غبار۔
 الْخَبَاطُ - چہرہ کی چوڑائی میں لمبا نشان جہ۔ خَبَطَ - الْخَبَاطُ - پاگل پن۔
 الْخَبُوطُ - وَالْخَبِيطُ وَالْاَخْبَطُ - من الخیل - زمین پر پاؤں مارنے والا گھوڑا۔
 الْخَبِيطُ - وہ حوص جس کو پاؤں مار کر اونٹوں نے گرا دیا ہو۔ دیہی جس میں تازہ دودھ ڈال کر ایک دوسرے ساتھ ملا دیا گیا ہو۔
 الْخَبَطُ وَالْخَبَطَةُ وَالْخَبَاطُ - پتے جھاڑنے کا ڈنڈا۔ دھوبی کی موگڑی۔
 خَبَعَ (مَنْ) خَبَعًا - فِي الْمَكَانِ - کسی جگہ داخل ہونا - الشَّيْءُ - چھپانا کہتے ہیں - "جَارِيَةٌ خَبَعَتْ طَلْعَةً" - وہ لڑکی جو کبھی اپنے آپ کو چھپائے اور کبھی ظاہر کرے۔
 (د) خَبُوعًا - الصَّبِيُّ - بچہ کا روتے ہوئے سانس گھونٹ لینا۔
 خَبَقَ (مَنْ) خَبَقًا - گوز کرنا - هُ کسی کو اپنے سے حقیر جاننا۔
 تَخَبَقَ - الشَّيْءُ - بلند ہونا۔
 الْخَبَقُ - بہت کوونے والا آدمی۔ تیز رفتار گھوڑا۔
 خَبَلَهُ (ن) خَبَلًا وَ خَبَلَهُ - خراب کرنا۔ بگاڑنا - هُ الْحُزْنُ - غم کا عقل کو خراب کر دینا۔ کہا جاتا ہے - "خَبَلَ الْحُبُّ قَلْبَهُ"



محبت نے اس کے دل کو تباہ کر دیا۔ — یَدَہ۔ ہاتھ کو شل (عشق) کرنا۔ — عن کذا۔ روکنا۔ منع کرنا۔ کہتے ہیں: یَحْبِلُ عن فعل ایہ: اس نے اپنے باپ کے فعل سے کوتاہی کی۔

حَبْل (س) خَبْلًا و خَبَالًا۔ پاگل ہونا۔ مجنون ہونا۔ صفت۔ (حَبْل وَاَحْبِل) خَبِلَتْ۔ الیڈ۔ ہاتھ کا خشک و بیکار ہو جانا۔

اِخْتَبَلَهُ۔ عقل کو خراب کرنا۔

اِخْتَبَلَتْ الدَابَّةُ۔ جالور کا اپنی جگہ نہ ٹھہرنا۔ تَخَبَّلَتْ الیڈ۔ ہاتھ کا لاپرواہی و لہجہ ہونا۔ اِسْتَعْبَلَهُ۔ الابل۔ کسی سے اونٹ عاریتہ مانگنا۔

الْخَبْلُ۔ مصی۔ قرض۔ ادھار۔ فتنہ۔ (وَالْخَبْلُ) اعضاء کی خرابی فالج کا اثر۔ ہاتھ پاؤں کی کاٹ۔

ج۔ خَبُول۔ الخَبْلُ۔ ایک پرندہ جس کی آواز آو کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔

”دھڑ خَبْلُ“۔ بگڑا ہوا زمانہ الخَبَالُ۔ فساد۔ نقصان۔ ہلاکت۔ زہر قاتل۔ کہا جاتا ہے: ”هُوَ خَبَالٌ عَلَى اہلہ“ وہ اپنے اہل پر بوجھ ہے۔

الخَابِلُ۔ فساد و شیطان جن۔ کہتے ہیں: مَسَّهُ الخَابِلُ۔ اس کو جن نے پاگل کر دیا۔ الخَابِلَانِ رات و دن۔

المُخْبِلُ۔ فا۔ اور مُخْبِل۔ بغیر الف لام، کے زمانہ کا نام ہے۔

المُخْبِلُ۔ مجنون۔ تھوڑا۔ درد کے باعث اچھی طرح نہ چل سکنے

والا۔

خَبِنَ (ض) خَبْنًا وِخْبَانًا۔ الثوب۔ کپڑے کو موڑ کر سینا۔ — الشاعِرُ۔ شاعر کا اپنے شعر میں فہین استعمال کرنا۔ (وَالْخَبْنُ) الطعام کھانے کو کپڑے کی تہ میں چھپانا۔ الخُبْنَةُ۔ تہ کردہ دامن۔ خوراک جو کپڑوں کی تہ میں لی جائے۔ ج۔ خَبِنَ۔ اَخْتَبَنَ۔ الشیء۔ کپڑے کی تہ میں چھپانا۔

الخَبْنُ۔ فی العروص۔ باصطلاح عروص سبب خفیف سے ساکن کو حذف کرنا۔ جیسے فَاَعْلَنَ سَے فَعْلَنَ — رَجُلٌ خَبِنَ۔ سٹے ہوئے اعضاء والا آدمی۔

خَبَانٌ و خُبُوٌّ اَخْبَوُا۔ خبت النساء و الحدة۔ آگ یا حرارت کا ٹھنڈی ہونا۔ بھنا۔ مندی پڑنا۔ کہا جاتا ہے: ”خَبَا لَهْبُهُ“ اس کے غصہ کا جوش ٹھنڈا ہوا۔ فرو ہوا۔

اَخْبَىٰ۔ النار۔ آگ کو بھجانا۔ خَبَىٰ۔ الشیء۔ چھپانا۔ اَخْبَىٰ و خَبَىٰ و تَخَبَّى و استَخْبَىٰ۔ الخَبَاءُ۔ نیمہ لگانا۔ استخبی الخباء۔ خیمہ میں داخل ہونا۔

الخَبَاءُ۔ اون یا اونٹ کے بالوں کا خیمہ ہالی میں جو یا گیموں کے دانہ کا چھلکا۔ شگوفہ کا غلاف ج۔ اَخْبِيَّة۔

خَتَّ دَن، خَتًّا — السَّنَانُ

الیڈ۔ نیزہ پے در پے مارنا۔ اَخْتَهَ۔ حصہ کم کرنا۔ اَخْتَقَ الرجل۔ باپ کے چرچے اور ذکر پر شرمندہ ہونا۔

الخَتَّتْ۔ بدن کی سستی۔ الخَتِيْتُ۔ خیس۔ ناقص۔ خَتَاوَةٌ (ف) خَتْنًا۔ عن کذا۔ منع کرنا۔ روکنا۔ اِخْتَتَاوْا۔ خوف وغیرہ کی وجہ سے رنگ کا متغیر ہونا۔ — مِن فُلَانٍ۔ شرم۔ ڈر یا ذلت کے سبب سے کسی سے چھپنا۔

لہ۔ دھوکا دینا۔ الشیء۔ اچک لینا۔ — مَفَاسِقَةٌ (مُخْتَبِتَةٌ) وہ بیابان جس میں راستہ نہ ملتا ہو۔

خَتَرَهُ (ض) خَتَرًا۔ بری طرح بے وفائی کرنا۔ صفت (خَاتِرٌ و خَتَّاسٌ و خَتِيرٌ و خَتُّوسٌ و خَتِيرٌ۔ دن (ض) خَتَرًا و خَتُّوسًا) — نَفْسُهُ جی بگڑنا۔

خَتِرَ دَس، خَتَرًا۔ زہر یا دوا پینے کی وجہ سے سُن اور بے حس ہو جانا۔

تَخَتَّرَ۔ سُست ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔ بیماری وغیرہ کی وجہ سے بدن کا سُست ہونا۔

خَتَرَةٌ — المَشْرَابُ۔ شراب کا کسی کے نفس کو خراب کر دینا اور ڈھیلا کر کے چھوڑنا۔

خَتَرَبَهُ۔ کاٹنا۔ پارہ پارہ کرنا۔ خَتَرَمَ۔ خَتَرَمَةً۔ گھبراہٹ کے سبب یا بات نہ کر سکنے کی وجہ سے خاموش رہنا۔



خَتَعَ (ف)، خَتَعًا وَخُتُوْعًا۔
 — اللیلُ بالقوم۔ اندھیرے
 میں رہبری کرنا۔ علی
 القوم۔ اچانک آ جانا۔
 وانخَتَعَ، فی الاسرِین۔ زمین
 میں دور تک نکل جانا۔
 الخَوْتُعُ وَالخَتِيعُ وَالخَتِيعُ
 عمدہ راہبر۔ الخَوْتُعُ
 خرگوش کا بچہ۔
 الخَتْنَاعُ۔ چمڑے کا دستانہ جو باز
 پالنے والے اس کے پنجوں کے
 تراش کے خوف سے ہاتھ میں
 پھنستے ہیں۔
 خَتَلَهُ (ن ض)، خَتَلًا وَخَتَلَانًا
 — وخَاتَلَهُ مُحَاتَلَةً۔
 دھوکا دینا۔ کہتے ہیں: خَاتَلُ
 الصَّيَادِ شکاری کا ایسے دے
 پاؤں سے چلنا کہ شکار کو آہٹ
 نہ پہنچے۔ صفتِ خَاتِلٍ وَ
 خَتُولٍ،
 تَخَاتَلُوا۔ آپس میں ایک دوسرے
 کو فریب دینا۔
 اخْتَتَلَ۔ لاسراس القوم
 چوری سے سنا۔ اختتل
 الرجل۔ فریب دینا۔
 الخُتْلُ۔ چھپنے کی جگہ۔ خرگوش کا
 بل۔
 الخَوْتُلُ۔ ظریف۔ ذانا آدمی۔
 الخَتَالُ۔ بڑا دھوکے باز۔ فریبی۔
 مؤنث۔ خَتَالَةٌ۔
 خَتَمَ (ض)، خَتَمًا وَخَتَمًا
 — الشَّيْءُ وَعَلَيْهِ۔ مہر لگانا۔
 — الْعَمَلُ۔ کسی کام سے
 فراغت حاصل کرنا۔ الْكِتَابُ
 پوری کتاب پڑھ جانا۔ الْاِنَاءُ

برتن کو مٹی وغیرہ سے بند کرنا۔
 کہا جاتا ہے: "خَتَمَ عَلَيْكَ
 بَابَهُ" اس نے تم سے اعراض کیا
 اللہُ لہ بالخير۔ اچھا انجام
 کرنا۔ — عَلَى قَلْبِهِ بے سمجھ
 بنانا۔ — الزَّرْعُ د علیہ
 کھیتی کو پہلی بار سیراب کرنا۔
 خَتَمَ بمعنی خَتَمَ مہر لگانے
 ساتھ۔ یعنی اچھی طرح ختم کرنا۔
 خَتَمَ۔ انگوٹھی پہنانا۔
 اخْتَمَ۔ الْكِتَابُ۔ کتاب کا
 خاتمہ پر پہنچنا۔
 تَخَتَمَ۔ الْخَاتَمُ د بے۔ انگوٹھی
 انگلی میں پہنانا۔ کہا جاتا ہے۔
 "تَخَتَمَ بِالْعَقِيقِ" اس
 نے عقیق کی انگوٹھی پہنی۔
 بامرہ۔ اپنے امر کو چھپانا۔
 عنہ۔ غافل بن کر چپ رہنا۔
 عمامہ باندھنا۔ کہتے ہیں۔
 "تَخَتَمَ بِعِمَامَتِهِ" اس نے
 اپنا عمامہ باندھا۔
 اخْتَمَ۔ پورا کرنا۔
 الخَتَمُ مہر۔ شہد۔
 الخَاتَامُ۔ انگوٹھی۔ مہر۔ ج۔
 خَوَاتِيمُ۔
 الخَاتِمُ وَالخَاتِمُ۔ ج۔ خَوَاتِمُ
 وَخَتَمُ۔ الخَاتَامُ۔ انگوٹھی
 مہر ہر چیز کا انجام۔ گدی کا گڑھا
 ٹانگوں کی تھوڑی سفیدی۔
 الخَاتِمَةُ۔ الخَاتِمُ کا مؤنث۔ انجام
 نتیجہ۔ اخیر۔ ج۔ خَوَاتِيمُ
 وَخَاتِمَاتُ۔
 الخَتَمُ۔ انگوٹھی۔
 الخَتَامُ۔ مص۔ مہر لگانے کی لاکھ
 یا ہر وہ چیز جس سے مہر لگائی جائے

ج۔ خَتَمَ۔
 الْمُخْتَمُ۔ مِّنَ الْخَيْلِ۔ وہ گھوڑا
 جس کی ٹانگوں میں تھوڑی سی
 سفیدی ہو۔
 خَتَنَ (ن ض)، خَتْنًا۔ الشَّيْءُ۔
 کاٹنا۔ الصَّبِيُّ۔ بچہ کی ختنہ
 کرنا۔ صفتِ مفعول۔ (خَتَبِينَ
 وَخَتْنُونَ)۔ عامُ مَخْتُونِ
 خشک سال۔ وَخَتْنُ
 الرَّجُلِ۔ فریب دینا۔
 خَتَنَهُ (ن ض)، خَتْنًا وَخَتْنَةً
 وَخَاتَنَهُ۔ داماد بنانا۔
 وَخَاتِنُ الرَّجُلِ۔ دھوکا دینا۔
 اخْتَتَنَ۔ الصَّبِيُّ۔ بچہ کا ختنہ
 شدہ ہونا۔
 الْخَتَانُ وَالْخَتَانَةُ۔ ختنہ۔
 الْخَتَانَةُ۔ ختنہ کرنے کا پیشہ۔
 الْخَتْنُ۔ عورت کی طرف سے رشتہ
 دار۔ مثلاً سسر۔ سالا۔ داماد
 ج۔ اخْتَانُ۔
 الْخَتْنَةُ۔ الْخَتْنُ۔ کا مؤنث۔
 سال۔
 الْخَاتُونُ۔ شریف زادی۔ بیگم۔
 ج۔ خَوَاتِينُ (کلمہ عجیب ہے)
 خَتَا يَخْتَوَانِ خَتْوًا۔ غم یا بیماری
 کی وجہ سے شکستہ دل ہونا۔
 خَتَاہ۔ روکنا۔
 اخْتَتَى۔ الْمُتَاعُ۔ کپڑوں کو ایک ایک
 کر کے فروخت کرنا۔
 اخْتَتَى۔ اخْتَتَاءً۔ غم یا بیماری کے
 کے باعث شکستہ دل ہونا۔
 خَتَّتْ۔ الشَّيْءُ۔ جمع کرنا۔
 اصلاح کرنا۔
 اخْتَتَتْ۔ شرم کرنا۔
 الْخُتَّ۔ سِیلاب کا کوڑا کرکٹ۔

یا پانی کے اوپر کی خشک شدہ
کائی۔
الْخَثَّةُ وَالْخَثَّةُ - آگ سلگانے
کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا
گٹھا۔
خَثَرٌ (ن)، خَثَرًا وَخَثُوسًا -
وِخْثَرَانًا وَخَثَرًا (س)
خَثَرًا وَخَثَرُونَ، وَتَخَثَرُ
— اللبَنُ - دودھ کا گاڑھا
ہونا۔ وہی بننا۔ صفت۔ (خاش)
خَثَرَتْ (ض)، خَثَرًا —
نفس الرجل۔ جی متلانا۔
مضطرب ہونا۔ کہا جاتا ہے۔
"استيقظ فلان خاشراً
النفس" فلاں شخص نیند سے
جاگا۔ ایسی حالت میں کہ اس
کی طبیعت سُست اور بدمزہ
ہوتی۔
خَثَرٌ وَآخَثَرٌ — اللبَنُ -
دودھ کا گاڑھا کرنا۔ وہی بنانا۔
آخَثَرٌ - الزيد - مکھن کو بغیر
پگھلائے چھوڑ دینا۔ مثل ہے۔
"ما يدري ايخثر ام
يُذيب" یہ ایسے شخص کے
لیے بولی جاتی ہے جو اپنے کام میں
متردد و متعیر ہو۔
الْخَاثِرَةُ - جماعت۔
الْخَثَارَةُ - دسترخوان کا بچا کچھا حصہ۔
الْخَثَارَةُ - چیز کا بقیہ۔ بچا ہوا گاڑھا
گاڑھا دودھ۔ کہا جاتا ہے۔
"ذهب صفوه بقيت
خثارتة" - یعنی اس کا صاف
اور خالص حصہ ختم ہو گیا۔ اور
تلمیض باقی رہ گئی۔
تَخْتَعِمُ - خون سے آلودہ ہونا۔

الْخُثْعَمُ وَالْمُخْتَعِمُ - شیر۔
الْخُثْعَمَةُ - اکٹھے ہو کر جانور کو
ذبح کرنا۔ اور مل جل کر کھانا اور
پھر اسی جانور کے خون میں خوشبو
ملا کر ماتھے رنگنا اور آپس میں
ایک دوسرے کے ساتھ مدد
کرنے کا معاہدہ کرنا۔
الْخَثْلَةُ وَالْخَثْلَةُ - من البطن
پیڑو۔ کہتے ہیں "طَعَنَهُ فِي
خَثْلَةٍ بَطْنِهِ" اس نے
اس کے پیڑو میں نیزہ مارا۔ ج
خَثَلَاتٌ وَخَثَلَاتٌ الْمَخَثَلَةُ
موتی عورت۔
خَثَمَ (س)، خَثَمًا - چوڑی یا
موٹی ناک والا ہونا۔ صفت۔
(خَثَمَ وَآخَثَمَ) خَثَمَتْ
اخلاص الناقة - اونٹنی کے
تھنوں کا بند ہونا۔
خَثَمَ (ن)، خَثَمًا - انفہ
ناک کو کچل دینا۔
خَثَمَ — الشئ - کسی چیز کو
چوڑا کرنا۔
الْخُثْمَةُ - ناک کی چوڑائی یا موٹائی۔
خَبَّهْ (ن)، خَبَّجًا - ہٹانا۔ دفع
کرنا — الحب - لکڑی پھاڑنا
چیرنا — بدرجلہ - پاؤں
سے خاک اڑانا — بسلاحہ
پاشٹانہ کرنا — سَاعِدَةٌ
کلائی کا گٹھا ہوا ہونا۔
اِخْتَبَجَ — الجمل - اونٹ کا پیچ
کھاتے ہوئے جلدی چلنا —
دِيجٌ (خَجُوجٌ) - آندھی۔
سخت ہوا۔
خَجَأَ (ف)، خَجَاءً — الرجلُ
گھر میں چھپ کے داخل ہونا۔

ن - الليل - رات کا اختتام پر
پہنچنا — ۵ - مارنا۔
خَجَعُ (س)، خَجَاءً - شرم کرنا۔
آخَجَاءً - سوال میں اصرار کرنا۔
تَخَاجَأَ - دیر لگانا۔
الْخَجَاءَةُ - موٹا وسُست۔
بے وقوف۔
الْخَجْفُ وَالْخَجِيفُ - اوجھاپن۔
خَجِلَ (س)، خَجَلًا - شرم و حیا
سے مضطرب ہونا۔ صفت۔
(خَجِلَ وَخَجَلَان) —
الثوب - کپڑے کے نیچے کے
حصہ کا پھٹا ہوا اور فراخ ہونا۔
صفت (خَجِلَ) - النباتُ
نباتات کا زیادہ اور گنجان ہونا۔
صفت (خَجِلَ) - البعيرُ
اونٹ کا وزن سے بوجھل ہونا۔
— بامرہ - اپنے امر میں
مشتبہ ہونا — من كذا -
زرچ ہونا — في طلب الرزق
رزق طلبی میں سُست ہونا۔
خَجَلَهُ وَآخَجَلَهُ - شرمندہ کرنا
— آخَجَلَ النباتُ - پودہ کا لمبا
اور گنجان ہونا۔
الْخَجَلُ - مص - شرم - حیا۔
خَجَى (ض)، خَجِيًا — الترابُ
بدرجلہ - پاؤں سے خاک
اڑانا۔
خَجَى (س)، خَجًا - شرم کرنا۔
خَدَّ (ن)، خَدًّا - فيه الضرب
چوٹ کا نشان چھوڑنا —
الارض - زمین پھاڑنا۔
خَدَّدَ - تَخْدِيدًا — لَحْمُهُ
دبلا ہو کر گوشت کا جھری دار ہونا
— لَحْمُهُ - دبلا کرنا۔

خَاذَہ - مَخَاذَہ - کام میں مزاحم ہونا۔

تَخَاذَا - ایک دوسرے کی مزاحمت کرنا۔

تَخَذَذَ - لَحْمُہ - دبا ہونے کے سبب گوشت کا بھری دار ہونا۔ النقوم۔ لوگوں کا فرقوں میں بٹ جانا۔

التَّخَذَ - پانی کی نہر۔ طریقہ۔ لمبا گڑھا۔ لوگوں کی جماعت۔ ج۔ خَذَاة - و خَذَاة۔

و خَذَاة - الخَذَّ مِنْ الْوَجْہ - رخسارہ۔ ج۔ خَذُود۔

الخَذَاة - لمبا گڑھا۔ ج۔ الخَذُود - لمبا گڑھا۔ ج۔

آخَاوِدَ - الآخَاوِدَ - کوڑے کی مار کے نشانات۔

اور اسی سے ہے الآخَاوِدَ الارشیه فی البئر۔ کنویں میں رسی کھینچنے کے نشانات۔

المُخَذَّہ - سوتے وقت رخسارہ رکھنے کا تکیہ۔ المَخَذَاة۔

دونوں کچلیاں۔ خَذَبَ (ن) خَذَبًا - جھوٹ

بولنا۔ ہ با السیف تلوار سے مارنا۔ الحَيَّةُ

سانپ کا ڈسنا۔ تَخَذَبَ - درمیانی چال چلنا۔

الخَذَب - لمبا۔ کنا جاتا ہے " فی لسانہ خذب۔ اس کی

زبان سے اوچھاپن اور حماقت ٹپکتی ہے۔ بلکاپن۔ بیوقوفی۔

الخَذِبُ وَالْأَخْبَاب - لمبا۔ بیوقوف۔ جلد باز۔

سیف خذب۔ کاٹنے والی

تلوار۔ طَعْنَةٌ اذ حوبہ خذبة و خَذَبَاء۔ وہ نیزہ

یا بر بھی جس کا گھاؤ سخت ہو اور کشادہ۔

الخَذَبہ۔ لمبا۔ الخَذَاب۔ بڑا جھوٹا۔

خَذَجَت (ن ض) خَذَاجًا - وَاخَذَجَت - الدابة جانور کا ادھورا بچہ گرانا۔ صفت

(خَادَج و خُجَدَج) صفت مفعول۔ خذيج و خذوج

و خذوج اور خذج کی جمع خذوج و خذاج و

خَذَاجُ - أَخَذَجَ الشَّيْءُ - چیز کا ناقص ہونا۔ گھٹنا۔

صلاتہ۔ بعض ارکان نمازیں کمی کرنا۔

خَذَجَت - الناقۃ۔ ناتمام بچہ گرانا۔

الخَذَاج - نقصان۔ خَذَرَ (ن) خَذَا - العضو عضو کا شل ہو جانا۔

العين۔ غارش کے سبب یا تنکا پڑ جانے سے آنکھ کا بھاری ہونا۔

الخَزْ أو الخَزْو گرمی یا سردی کا تیز ہو جانا۔

النهار۔ دن کا جس والا ہونا اور تیز گرمی والا ہونا۔

خَذَرَ (ن) خَذَرًا - متحیر ہونا۔

الظبی۔ ہرن کا گلہ سے پیچھے رہ جانا۔

الاسد فی عرینہ۔ شیر کا ماند میں رہنا۔

بالمكان۔ اقامت کرنا۔ و خَذَرَ وَاخَذَرَ البنت

لڑکی کو پردہ میں رکھنا۔

خَذَرَ وَاخَذَسَ العضو۔ عضو کو سن اور بے حس کرنا۔

أَخَذَرَ بِالْمَكَانِ۔ کسی جگہ اقامت کرنا۔

مع اہلہ۔ اپنے لوگوں کے ساتھ قیام کرنا۔

الاسد شیر کا جھاڑی میں رہنا۔

الاسد عرینہ جھاڑی کا شیر کو چھپا لینا۔

تَخَذَرَ وَاخْتَذَرَ۔ چھپنا۔ الخَادِس۔ سست۔ کاہل۔ حیران۔

الخَذَس۔ لڑکی کے لیے مکان کے ایک گوشہ میں لگایا ہوا پردہ۔

لڑکی کے رہنے کی خاص علیحدہ جگہ۔ ہر ایک چیز جس سے پردہ

کیا جائے۔ شیر کی جھاڑی رات کی تاریکی۔ ج۔ أَخَذَار و

خَذُور۔ جب۔ آخَاوِد۔ الخَذَر۔ عضو کی بے حسی۔ کاہلی۔ سستی۔

اندھیری تاریک رات۔ الخَذَر۔ بے حس عضو والا۔

لیل خَذَس۔ اندھیری رات۔ مکان خَذَر۔ چھپی ہوئی تاریک

جگہ۔ نہاڑ خَذَر۔ نناک دل۔

الخَذَار۔ شیر کی جھاڑی۔ الخَذَرۃ۔ سخت تاریکی۔

الأخَذَر و الخَذَارِی۔ اندھیری رات۔ الخَذَارِی۔ سیاہ

با دل۔ الخَذَارِیۃ۔ عقاب۔

الأخَذَر و الخَذَرِی و الاخَذَرِی۔ ایک قسم کا جنگلی گدھا۔

ھودج (مخدور) پردہ پڑا ہوا ہودہ۔ الخَذَارِث۔ نرکڑی۔ بعض کے



نزدیک بڑی کڑی۔ جو خدا رتق
خَدَّ شَه (من) خَدَّ شَا وَخَدَّ شَه
نوجند۔ ٹکڑے ٹکڑے۔ عیب
لگانا۔ خراش لگانا۔
الخَدَّش۔ مص۔ خراش۔ ج۔
خَدَّوش وَخَدَّاش وَخَدَّاشِ
الخَدَّوش۔ زیادہ خراش کرنے
والا۔ چھیلنے والا۔ پسو۔ کبھی۔
المُخَدَّش وَالمُخَدَّش۔ بل
المُخَدَّش۔ گرون۔ انسان میں کٹنے
کی جگہ۔
خَدَّ عَه (ف) خَدَّ عَا وَخَدَّ عَا
دھوکہ دینا۔ فریب میں لانا۔
— المضبُّ فی حجر۔
سوسمار کا اپنے بل کے اندر جانا
— المَطْرُ۔ بارش کا کم ہونا
— الرجلُ۔ کسی کی دولت کا
کم ہونا۔ عطیہ دینے سے رکنا۔
— السَّوْقُ۔ بازار کا ٹھنڈا
ہونا۔ رائج ہونا۔ (صد)
— الاموسُ۔ مختلف ہونا۔
— الشمسُ۔ سورج کا غائب
ہونا۔ — الطریقُ۔ غیر معلوم
ہونا۔ — الشیْءُ۔ خراب
ہونا۔ — الثوبُ۔ کپڑے
کا موڑنا۔ تہ کرنا۔ — الرجلُ
کسی کی زگ اندر کو کاٹ دینا۔
أَخَدَّ عَه۔ کسی کو دغا بازی پر اکسانا
برا نگینہ کرنا۔ — الشیْءُ۔
چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔
خَادَّ عَه مُخَادَّ عَه وَخَدَّ عَا
وَاخْتَدَّ عَه وَتَخَدَّ عَه۔
دھوکا دینا۔ خادع العین
آنکھ کی دیکھی بھالی بات میں
شک ڈالنا۔ — تَخَادَّ عَ۔

دھوکا کھانے کا بہانہ کرنا۔
القومُ۔ بعض کا بعض کو
دھوکا دینا۔
أَخَدَّ عَ۔ دھوکا کھانا۔ دھوکے پر
رضا مند ہونا۔ — بَدَّ۔
دھوکا کھانا۔ — السَّوْقُ
بازار کا ماند پڑنا۔ ٹھنڈا ہونا۔
الخَدَّيْعَةُ۔ ج۔ خَدَّ اِثْمَ —
الخَدَّ عَةَ وَالْخَدَّاعِ دھوکے
کا فریغ۔ کمرو حیلہ۔
الخَدَّ عَةَ۔ بہت دھوکا کھانے
والا۔
الخَدَّ عَةُ وَالْخَدَّاعِ وَالْخَدَّاعِ
بہت دھوکا دینے والا۔
سَنَةُ خَدَّاعَةٍ۔ کم پیداوار
اور کم سرسبز والی سال۔
الخَادِعِ۔ فَا۔ طریقِ خَادِعِ۔
وہ راستہ جو کبھی دکھائی دے
اور کبھی گم ہو جائے۔ دینارُ
خَادِعِ۔ کم وزن دینار۔
الخَادِعَةُ۔ مونث۔ بڑے دروازہ
کی کڑی۔ مکان کی کوٹھری۔
الْأَخْدَاعِ۔ اسم تفضیل۔
الاخدعان۔ گرون کی ہر دو جانب
دو پوشیدہ رکیں۔ کہتے ہیں۔
”لَا قِيَمَتَكَ اخْدَعِيكَ“ میں
تیرے تکبر کو مٹا دوں گا۔
فَلَانٌ شَدِيدُ الْاَخْدَاعِ۔ فلاں
بڑا سرکش ہے۔ ج۔
أَخَادِعِ۔
الْخَيْدَعِ۔ ناقابل اعتبار دوست
مقصد کے مخالفت راستہ۔ چکنا
ہواریت۔ مکار بیٹریا۔
الْخَدُّوعِ۔ بڑا فریبی۔ طریقِ
خَدُّوعِ۔ وہ راستہ جو کبھی

دکھائی دے اور کبھی گم ہو جائے۔
ج۔ خَدَّاعِ۔
الْمُخَدَّاعِ وَالْمُخَدَّاعِ۔ وَالْمُخَدَّاعِ
کوٹھری۔ بڑے گھر کے اندر جو
ج۔ خَدَّاعِ۔
الْمُخَدَّاعِ۔ تجربہ کار۔ بار بار دھوکہ
خور دہ۔
خَدَّات (من) خَدَّاتُ۔ تیز چلنا۔
— خَدَّاتِ السَّمَاءِ بِالْمَثَلِجِ
آسمان کا برف گرانا۔ وَاخْتَدَفِ
الشيْءُ۔ اچک لینا۔
الْخَدَفُ۔ مص۔ کشتی کا پتوار۔
خَدَلَتْ (من) خَدَلَا وَخَدَلَتْ
وَخَدُّوسَةً۔ السَّاقُ
پٹلی کا پڑ گوشت ہونا۔
ساقُ خَدَلَه۔ گوشت سے
بھری موٹی پٹلی۔
خَدَمَه (من) خَدَمَتَه۔
وَخَدَمَتَه۔ خدمت کرنا۔
صفت (خَادِمِ) ج۔ خَدَامِ
وَخَدَمِ۔ مؤنث۔ خَادِمَةٌ
وَخَادِمَةٌ۔
أَخْدَمَه۔ کسی کو خادم دینا۔
خَدَمَ۔ الرجلُ امرأَةً۔ کسی
کا اپنی عورت کو یار بنانا۔
تَخَدَّمَه۔ خادم بنانا۔ کو کرنا۔
أَخْتَدَمَه۔ خود اپنی خدمت کرنا۔
— کسی سے خادم بنانا۔
اسْتَخْدَمَه۔ خادم بنانا۔
الرجلُ۔ کسی سے خادم مانگنا۔
الْخَدْمَةُ۔ وقت دن یارات کا۔
الْخَدْمَةُ۔ پازیب۔ پٹلی۔ لوگوں
کا حلقہ۔ کہتے ہیں۔ ”فَضَّ اللَّهُ
خَدْمَتَهُمُ“ اللہ ان کی جماعت



میں بھوٹ ڈال دے۔ د۔

وَالْخِدْمَةُ (مضبوط چمڑے کا

پٹہ جو اونٹ کے گٹے پر باندھا

جاتا ہے۔ جر۔ خَدَمَ و

خَدَامَ و خَدَمَات۔

الْخَادِمِيَّة۔ نوکری۔ غلامی۔

الْمَخْدُومِيَّة۔ آقا۔

الْخُدَام۔ خادم۔ نوکر۔

الْخَدِيم۔ نوکر۔ غلام۔

الْأَخْدَام۔ پاؤں پر سفید داغ

رکھنے والا گھوڑا۔ مؤنث

خَدْمَاء۔

الْمَخْدُومَةُ۔ مفع۔ آقا۔ مولیٰ۔

کتاب مخدومہ وہ مقبول

کتاب جس کی لوگ شریں اور

حاشیہ لکھیں۔

الْمَخْدَم۔ والمخدومة۔ پازیب

پہنے کی جگہ۔ تسمہ۔ پانجامہ کے

کے نیچے کے حصہ پر باندھنے کی

ڈوری۔ گیٹس۔ قوم

مُخَدَّمُون۔ بہت نوکر چاکر

والے لوگ۔

خَادَتَهُ۔ مُخَادَنَةً۔ دوستی کرنا۔

ساتھی بننا۔

الْخِدْنُ۔ دوست۔ ساتھی (مذکر و

مؤنث، جر۔ أَخْدَان

الْخَدِيْن۔ دوست۔ پیارا

ساتھی۔

الْخَدَنَةُ۔ یار باش آدمی۔

خَذَى (ض) خَذِيًّا وَخَذِيًّا نًا۔

— الْفَرَسُ أَوْ الْبَعِيرُ۔

گھوڑے یا اونٹ کا تیز دوڑنا۔

أَخْدَى۔ أَخْدَاءً۔ تھوڑا تھوڑا

چلنا۔

الْخَدَل۔ جانور کے گوبر سے بچنے

والا کپڑا۔ واحد۔ خَدَاة۔

الْخُدَايُوتُ۔ عزیز مصر کا لقب۔

کلمہ فارسی ہے بمعنی بادشاہ یا

وزیر، سردار۔

خَذَّ (ن) خَذِيذًا و أَخَذَ۔

الْجِرْحُ۔ زخم کا پیپ بہانا۔

خَذَا وَخَذِي (س) خَذَا۔

و خَذَاءً وَخَذُوعًا و

اسْتَخَذَ الْآلَہ۔ فروتنی کرنا۔

مطیع و فرمانبردار ہونا۔

أَخَذَ عَاه۔ ذلیل کرنا۔ تابع کرنا

الْخِذَاءُ۔ نفس کی کمزوری۔

خَذَرَف۔ جلدی کرنا۔ ہ

بِالسَّيْفِ۔ جسم کے اطراف کی

تلواریں سے قطع برید کرنا۔

الْإِنَاءُ۔ برتن بھرنا۔

تَخَذَرَفْتَهُ۔ النُّوَى۔ پھینک

دینا۔ تَخَذَرَفَ۔

الْمَثُوبُ۔ کپڑا پھینکا۔

الْخَذَرُوفُ۔ تیز رفتار۔ پھر کی

چکری، اس کو خوارہ بھی کہتے

ہیں۔ اونٹوں کا گلہ جو دوسروں

سے علیحدہ ہو گیا ہو۔ جر۔

خَذَّ أَرِيفَ۔ کہتے ہیں۔

”تَرَكْتُ السَّيْفُ رَأْسَهُ

خَذَّ أَرِيفَ“ تلواروں نے اس

کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے

رکھ دیے۔ رَجُلٌ

مَتَخَذِرٌ۔ اچھے اخلاق کا

آدمی۔

خَذَعَ (ف) خَذَعًا وَخَذَّعَ۔

— اللَّحْمَ إِذَا قَرَعَ۔

گوشت یا کدو کی پھانکیں کرنا۔

بغیر جدا کیے ہوئے۔

تَخَذَّعَ۔ کٹنا۔ کہتے ہیں ”ذَهَبُوا

خَذَعَ مَذَعَ“ وہ الگ الگ

بچھڑ کر چلے گئے۔

الْخِذَعَةُ۔ زمین وغیرہ کا ٹکڑا۔

الْخَذِيْعَةُ۔ ایک قسم کا کھانا، جو

گوشت کے قیمہ سے بنایا جاتا ہے

الْمُخَذَعَةُ۔ چھری۔

خَذَعَ وَخَذَّ عَلَ الْبَطِيخِ

و مَخُوَةٍ۔ خربوزے یا تربوز کی

پھانکیں کرنا۔ چھوٹے چھوٹے

ٹکڑوں میں کاٹنا۔

خَذَفَ (ض) خَذْفًا۔ بِالْمَحْصَاةِ و

نَحْوَهَا۔ انگلیوں سے یا گوپھن

سے کنکری وغیرہ پھینکنا۔

تَخَذَفَتِ۔ عَيْنَاهُ بِالْمَدْمُوعِ۔

آنکھوں کا تیزی سے آنسو بہانا۔

الْخَذَّافَةُ۔ چوڑا۔ سُرْبِ

الْمِخْذَفَةِ۔ گوپھن۔ غلیل۔

الْخَذُوفُ۔ مِنَ الدَّوَابِّ۔ تیز

رفتار جانور جو تیز رفتاری کی وجہ

سے دوڑنے میں کنکریاں اڑائے

وہ جانور جو چلنے میں اپنے پاؤں

پیٹ تک اٹھائے۔ جر

خَذَفَ۔

الْخَذْفَانُ۔ تیز رفتاری۔

خَذَقَ (ن ض) خَذَقًا۔

الْدَّابَّةُ۔ جانور کو تیز چلانے

کے لیے چھڑی وغیرہ چھوڑنا۔

— الْبَازِيُّ۔ باز کا بیٹ

کرنا۔

الْخَذَقُ۔ گوبر۔ لید

خَذَلَ (ن) خَذَلًا وَخَذَلَانًا و

خَذَلَانًا۔ فَلَانًا وَعِنْدَ

مَدِّ جَهْرُنَا۔ صفت (خَاذِلُ،

جر خَذَالُ۔ صفت مفعولی

(مَخْذُولُ، — فِخَاذِيلُ



— خَذَلْتُ الظبيلة۔ ہرنی
 کار یوڑ کو چھوڑ کر الگ پھٹ جانا
 صفت (خَاذِلٌ وَخَذُولٌ)
 خَذَلٌ — عنده اصحابہ۔ کسی
 کو مدد نہ دینے کی ترغیب دینا۔
 — ۵۔ کسی کو سپاہی اور
 جنگ بند کرنے پر آمادہ کرنا۔
 خَاذَلَهُ مُخَاذَلَةً۔ مدد چھوڑنا۔
 تَخَاذَلُ — القوم۔ بعض کا
 بعض کی مدد کو چھوڑ دینا۔ باہم
 امداد ترک کرنا۔ رجلا
 پاؤں کا کمزور ہونا۔
 الخَذَالُ۔ بہت مدد چھوڑنے والا۔
 الخَذَلَةُ۔ وہ شخص جس کی مدد ہمیشہ
 چھوڑی جائے۔
 الخَذُولُ۔ بہت مدد چھوڑنے والا۔
 — رَجُلٌ خَذُولٌ الرَّجُلِ
 وہ شخص جس کی ٹانگوں میں کمزوری
 یا کسی آفت یا نشہ کے باعث کام
 دینا چھوڑ دیا ہو۔
 خَذَمَ (ض) خَذَمًا وَخَذَمَ۔
 — الشئ۔ جلدی سے کاٹنا۔
 خَذِمَ (س) خَذَمًا۔ مست
 ہونا۔ کٹ جانا۔ صفت۔
 (خَذِيمٌ)
 خَذِمَ (س) خَذَمًا۔ تیز چلنا
 ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
 أَخَذَمَ۔ ذلت کا اقرار کرنا اور
 چپ رہنا۔ ۵ الشراب
 شراب کا کسی کو نشہ میں لانا۔
 مست کرنا۔
 تَخَذَمَ۔ — الشئ۔ ٹکڑے
 ٹکڑے ہونا۔ الشئ۔ کسی چیز
 کو تکلف سے کاٹنا۔
 اخْتَذَمَ۔ قاطع ہونا۔ الشئ

کاٹنا۔
 الخَذَمُ۔ ج خُذِمَ۔ الخِذَمُ۔
 وَاِلِخْذَمَ۔ وَاِلْمُخْذَمَ۔
 مِنَ السیوف۔ کاٹنے والی
 تلوار۔
 الخُذَامَةُ۔ کسی چیز کا ٹکڑا۔
 اِلْمُخْذَمُ۔ کاٹنے کا آلہ۔ چھری۔ تیز
 تلوار وغیرہ۔
 خَذَانٌ (ن) خَذَوًا وَخَذَى
 (س) خَذَى۔ ڈھیلا ہونا۔
 — لحمہ۔ گوشت کا
 گھٹا ہوا ہونا۔ — المَذُنُ
 کان کا ڈھیلا ہونا۔ لٹکا ہوا ہونا۔
 — خَذَوَاءٌ۔ ڈھیلا کان۔
 ڈھیلا کان والا۔ — أَخَذَى
 اسْتَخَذَنِي۔ تابع دار و فرماں
 بردار ہونا۔
 خَرَّ (ن ض) خَرًّا وَخَرُوسًا
 بلندی سے پستی میں گرنا۔
 "خَرَّ اللَّهُ سَاجِدًا" اللہ کے
 لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑا۔
 — لَوْجَه گرنا۔ الرجلُ
 مرنا۔ علیہ۔ انجان جگہ سے
 اچانک آپڑنا۔
 أَخْرَجَ۔ اخْرَاجًا۔ گرانا۔ کہا جاتا
 ہے۔ "ضربه بالسيف فاخرجه"
 اس نے اس کو تلوار سے مار
 گرایا۔
 اِنْخَرَّ۔ ڈھیلا ہونا۔
 الْخَرُّ۔ کان کی جڑ۔ وہ قطعہ زمین
 جس میں سیلاب شکاف ڈال
 دے۔ ج خَرَرَهُ۔ —
 وَالْخَرَّى، چکی کا وہ سوراخ
 جہاں گہیوں ڈالے جاتے ہیں۔
 الْخَرُوسُ۔ بلی کی آواز۔ پانی اور گڑھے

والی زمین۔
 الْخَرِيدُ۔ مص۔ سونے والے کا خراٹا۔
 دو ٹیلوں کے درمیان پست زمین
 ج۔ أَخْرَجَ۔
 الْخَرَارُ۔ بہت خراٹے لینے والا۔
 مَوْنَتُ۔ خَرَارَةٌ۔
 الْخَرَارَةُ۔ پھرکی۔
 خَرِيٌّ (س) خَرًا وَخَرَاةً
 وَخَرَاةً وَخَرُوءًا —
 پائٹھانہ کرنا۔ لید کرنا۔ بیٹ کرنا
 کہا جاتا ہے۔ "خَرِثْتُ بَيْنَهُمُ
 الضِّبَعُ" یعنی ان کے درمیان
 دشمنی ہو گئی۔
 الْخُرُءُ۔ ج۔ خُرُوءٌ۔ (وَالْخِرَاءُ)
 پلیدی۔ پائٹھانہ۔ بیٹ۔ لید۔
 الْمَخْرَاةُ۔ وَالْمُخْرَاةُ۔ پائٹھانہ
 کی جگہ۔ ج۔ مَخَارِي۔
 خَرِبَ (س) خَرَبًا وَخَرَابًا۔
 البیت۔ گھر کا ویران اور اجاڑ
 ہونا۔ صفت (خَرِبٌ) مَوْنَتُ
 خَرِبَةٍ۔ (د۔ خَرَبًا) الرَّجُلُ
 کسی کا پچھے ہوئے یا چھوٹے ہوئے
 کان والا ہونا۔ صفت (أَخْرَبٌ)
 مَوْنَتُ خَرِبًاو۔ ج۔
 خَرِبٌ۔
 خَرِبَهُ (ض) خَرَبًا۔ ڈھانا۔ ہلاک
 کرنا۔ بھاڑنا۔ سوراخ کرنا۔
 خَرِبَ (ض) خَرَابَةً وَخَرَابَةً
 وَخَرَبًا وَخُرُوبًا —
 پُور ہونا۔ صفت (خَارِبٌ)
 ج۔ خَوَابٌ۔
 خَرَبٌ۔ البیت۔ گھر کو ڈھانا۔
 تباہ کرنا۔ — الْمَزَادَةُ
 سوراخ کرنا۔
 أَخْرَبَ۔ البیت۔ ویران چھوڑنا

— المكان - خالی ہونا۔
 تَخْرَبُ — الدودُ الشَّجَرَةَ -
 کیڑے کا درخت کو کھا جانا۔ یا
 سوراخ کر دینا۔
 اسْتَخْرَبَ — الرجلُ آدمی کا
 مصیبت سے شکستہ حال ہونا۔
 — الیہ - مشتاق ہونا۔
 — السقاء - مشک کا سوراخ
 وار ہونا۔
 الخرب - ویران جگہ۔ پہاڑ کا
 باہر نکلا ہوا کنارہ۔ بزل۔ کہا
 جاتا ہے: "هو خرب العظام"
 یعنی اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں
 "وهو خرب الجوف" وہ خالی
 پیٹ اور بھوکا ہے۔ "وهو
 خرب الأمانة" وہ امانتداری
 نہیں رکھتا۔ "رجلٌ خربانٌ"
 بزدل آدمی۔
 الخرب والخرابة والخربة
 سرین کا گڑھا یا سوئی کا سوراخ۔
 بقول بعض ہر گول سوراخ مثلاً
 کان کا سوراخ۔ ج۔ خرب و
 أخراب و خروب۔
 الخرب والخربة والخربة -
 گڈریے کا تھیلہ۔ دینی خرابی۔
 الخربة - چھلنی۔ عیب۔ لغزش۔
 ہر وہ چیز جس سے شرم کی جائے
 مذہبی خرابی۔ کہا جاتا ہے۔
 "هو صاحب خربة" وہ دینی
 خرابی رکھتا ہے۔ اور اسی سے
 ہے "لحي الله ادنانا الى
 كل خربة" اللہ تعالیٰ کی اس
 پر لعنت ہو کہ اس نے ہم کو ہر
 مذہبی خرابی سے قریب کر دیا۔
 "وما رأينا من فلاح خربة"

فی دینہ۔ ہم نے فلاں کے
 دین میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔
 ج۔ خرابات۔
 الخربة والخربة - ویران جگہ
 ج۔ خرابات و خرب و
 خرب و خرائب۔
 الخراب - ویران۔ اجاڑ۔ ج۔
 أخربة و خراب۔
 الخرابة و خرابة - الابرہ۔
 سوئی کا سوراخ۔
 الخروب والخروب - ایک قسم
 کا درخت۔ واحد خروبہ و
 خروبہ۔
 الخراب - جڑوں کے چھتے کے
 سوراخ۔ وہ سوراخ جن میں شہد
 کی مکھی شہد جمع کرتی ہے۔
 مفرد الخروب (اصحیح
 التغایب)۔
 خربش - خربشہ - لکڑی کا
 ادا العمل۔ کتاب یا عمل کو
 خراب کر دینا۔ بگاڑ دینا۔
 خرابیش الخط - خطی بگاڑی
 ہوئی جگہیں۔ خرابیش
 المدجاجة - مرغی کے کریدنے
 کے نشان۔
 خربص - الأشياء - چیزوں
 کو الگ الگ کرنا۔ المال
 مال کو لے اڑنا۔
 خربق - چلنے میں جلدی کرنا۔
 الشی - ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 — العمل - بگاڑنا۔
 الثوب - پھاڑنا۔ النبت
 پودوں کا ایک دوسرے سے
 متصل ہونا۔
 الخربق - ایک قسم کی گھاس جس

کی پتیاں بارتنگ کے مشابہ ہوتی
 ہیں۔ یہ سفید بھی ہوتی ہے اور
 سیاہ بھی۔
 الخربق - سر جھکانا۔ زمین سے
 چھٹنا۔
 خربت دن - خربت - الاذن - کان
 میں سوراخ کرنا۔ الارض
 زمین کے راستوں سے واقف
 ہونا۔
 خربت (س) - خربت - ہوشیار
 راہبر ہونا۔
 الخورت والخورت - سوئی وغیرہ
 کا سوراخ۔ کہا جاتا ہے: اخیق
 من خورت الابرہ - یا
 ٢ جعل العود فی خرت
 الغاس - سینہ کے پاس
 چھوٹی پسلی۔ ج۔ أخرات۔
 وخروت ذئب خرت - تیز
 بھیڑیا۔
 الخوریت - وہ ماہر و ہوشیار راہبر
 جو بیابان کے پوسیدہ راستوں
 سے جی پوری واقفیت رکھتا ہو۔
 ج۔ خورایت و خورات۔
 المخرت - صاف اور کھلا راستہ۔
 المخرت - منع۔ وہ جس کا کان یا
 ناک یا ہونٹ پھٹا ہو۔
 الخرتاء - وہ عورت جس کی کوکھیں
 موٹی اور گوشت ڈھیلے ہو۔
 الخرتی - روی گھٹیا سامان۔
 خرتی الکلام - بے فائدہ کلام
 خرب رض - خروجا و مخرجا۔
 — من موضعہ - باہر نکلا۔
 — فی العلم - علم میں فائق
 و ماہر ہونا۔ بہ - نکالنا۔
 — علیہ - کسی سے لڑنے



کے لیے نکلنا۔ الرعیۃ
 علی الملک: رعایا کا بادشاہ
 کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا۔
 — الی فلان من دینہ:
 قرض ادا کرنا۔ چکانا۔
 خَرَجَہ — من المکان۔ نکالنا
 — الارض کسی زمین پر
 خراج مقرر کرنا۔ المسئلة:
 مسئلہ کی وجہ بیان کرنا۔
 الولد فی الادب۔ بچہ کو
 تربیت دینا۔ ہا ادب اور
 مہذب بنانا۔ العمل:
 ایک دوسرے کے مخالف
 مختلف قسم کے کر دینا۔
 الغلام اللوح: لڑکے کا تختی
 کے کچھ حصہ پر لکھنا۔ اور کچھ کو
 بے لکھے چھوڑ دینا۔ الراعیۃ:
 المرتع۔ کچھ حصہ چرلینا اور کچھ
 بے چرا چھوڑ دینا۔
 اَخْرَجَ — الشئ۔ نکالنا۔
 الرجل۔ خراج ادا کرنا۔
 الراعیۃ المرتع۔ کچھ حصہ چرلینا
 اور کچھ بے چرا چھوڑنا۔
 خَارَجَ۔ السید العبد۔ آقا
 کا اپنے غلام سے ماہوار مقررہ رقم
 کی ادائیگی کا معاملہ کرنا۔
 تَخَارَجَ۔ الشرکاء۔ شرکیوں کا
 جائیداد کو آپس میں تقسیم
 کر لینا۔
 اخْتَرَجَ۔ الشئ۔ نکالنا۔
 استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا۔
 — فلاناً۔ کسی سے نکلنے کے
 لیے کہنا۔
 اخْرَجَ دَاخِرًا۔ حیوان
 جانور کا سیاہ و سفید رنگ والا

ہونا۔ صفت (اَخْرَجَ)
 مؤنث خَرَجَاء۔
 اسْتَخْرَجَ۔ الشئ۔ استنباط
 کرنا۔ کسی سے باہر نکلنے
 کے لیے کہنا۔ المسئلة:
 مسئلہ کو حل کرنا۔۔۔۔۔
 اسْتَخْرَجَتِ الارض۔ زمین کا
 کاشت وغیرہ کے لیے درست
 کیا جانا۔
 الخَرْجُ۔ خراج۔ خراج اور خراج
 میں فرق کیا گیا ہے۔ یعنی خراج
 وہ ہے جو انسان کے عوض میں
 ہو۔ اور خراج اس سے عام ہے
 — خرج۔ اول اول گھرتے
 وقت کا بادل۔ ج۔ اَخْرَاجُ
 الخَرْجَہ۔ ایک دفعہ کا نکلنا۔
 الخَرْجُ۔ خرچی۔ ج۔ خَرْجَہ۔
 الخَوَاج۔ مثلثۃ الخاء۔ زمین
 کا محصول۔ ٹیکس۔ جزیہ۔
 ج۔ اَخْرَاجُ وَاخْرَجَہ۔
 وجہ۔ اَخَارِیج۔
 الخَرْجُ۔ چھوٹے ہنسیاں۔ آبلے
 واحد خَرَجَہ۔ ج۔
 خَوَاجَات۔ خَوَاج وَاخْرَاجُ
 وَاخْرَجَہ۔ خَرْجَہ۔
 بہت نکلنے والا اور داخل ہونے
 والا۔ بڑا ہوشیار۔ حیلہ گر۔
 الخَارِج۔ ہر شے کا ظاہر۔ نکلنے والا۔
 الخَارِجَہ۔ الخَارِج کا مؤنث
 ج۔ خَارِجَات وَاخْوَارِجُ
 الخَوَارِج۔ باغی لوگ۔ جماعت
 سے جدا ہونے والے لوگ۔
 الخَارِجِی۔ بیرونی۔ وہ شخص جو
 ذاتی قابلیت سے سرداری حاصل
 کرے۔ اس کی سرداری قدیمی

خاندانی نہ ہو۔ وہ شخص جو خود
 بہادر و شجاع ہو اور اس کا باپ
 بزدل۔ وہ سبقت لے جانے
 والا گھوڑا جس کے ماں باپ
 ایسے نہ ہوں۔ بادشاہ سے
 بغاوت کرنے والا۔ اور جماعت
 سے نکل جانے والا۔ خَوَارِج کے
 مذہب کا معتقد۔
 الخَارِجِیۃ۔ الخَارِجِی کا مؤنث
 وہ منصب جس کے ذریعہ دوسری
 حکومتوں سے تعلقات رکھے
 جائیں۔
 الخُرُوج۔ مص۔ یومُ الخُرُوج
 عید کا دن۔ یومُ القیامۃ۔
 قیامت کا دن۔
 المَخْرَجُ وَاخْرَجَہ۔ المَخْرَجِی
 تربیت یافتہ۔
 المَخْرَج۔ نکلنے کی جگہ۔ بدن ار۔
 میں پائخانہ کا مقام۔ ج۔
 مَخَارِج۔ المَخَارِج۔ عند
 القراء والصوفیین۔ منہ
 میں حروف کے کھلنے کی وہ جگہیں
 جن سے حروف آپس میں ایک
 دوسرے سے ممتاز اور جدا
 ہوتے ہیں۔
 المَخْرَجُ۔ مفع۔ نکلنے کی جگہ۔
 خَرَجَہ۔ النَائِج۔ نزلے لینا۔
 — النمر و السنور۔ بچتے
 یا بلی کا خرخر کرنا۔ آواز کرنا۔
 تَخَرَّجَہ۔ بَطْنُہ۔ پیٹ کا موٹاپے
 کے سبب ہلنا۔
 الخَرَجَہ۔ پانی بننے یا ہوا چلنے کی
 آواز۔
 الخَرَار۔ کثرت سے بہتا ہوا پانی۔
 الخَرَار۔ (س) خَرَدَا وَاخْرَدَات۔



— الجاریدۃ لڑکی کا بارہ ہونا
دو شیزہ ہونا۔

خَرْدَ وَاخْرَدَ — الرجلُ دیر
تک خاموش رہنا۔ کلام کم کرنا۔
ذلت کی وجہ سے شرم کرنا۔
— "اَخْرَدَ اِلَى الدَّهْوِ"

ماہل ہونا۔

الْخَرِيدَ وَالْخَرِيدَةَ وَالْخُرُودَ

بارہ لڑکی۔ شرمیلی اور زیادہ
خاموش رہنے والی لڑکی۔ ج

خَرَّائِدٌ وَخَرْدٌ وَخَرْدٌ —
"صَوْتُ خَرِيدٍ" نرم

شرمیلی آواز — "لَوْ لَوْءَ
خَرِيدٍ" ناسفتہ موتی۔

الْخَرِيدَةُ — ناسفتہ موتی۔ ج۔

خَرَّائِدٌ وَخَرْدٌ وَخَرْدٌ —
الْخُرْدَةُ — (فارسی کلمہ ہے) چھوٹا

چھوٹا متفرق اسباب و سامان۔
الْخُرْدُجِي — خردہ بیچنے والا۔ معمولی

تاجر۔ بساطی۔

خَرْدَقٌ — الْعَمَلُ کام کو
بگاڑنا۔ کلمہ عالیہ ہے اس کے

لیے فصیح خَرِيقٌ ہے۔
الْخُرْدَقُ — چہرہ۔ ج۔ خَرَادِقُ

(دخیل)

خَرْدَلٌ — الطَّعَامُ اچھا
حصہ کھانا — اللَّحْمُ

گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے
کاٹنا۔

الْخَرَادِلُ — گوشت کے ٹکڑے۔
— لَحْمٌ دَخْرَادِيلٌ ٹکڑے

ٹکڑے کیا ہوا گوشت۔
الْخَرْدَلُ — رائی۔ واحد۔

(خَرْدَلَةٌ)

خَرَسَ دَنٌ ضَخْرَدًا — الْجِلْدُ

ستالی سے سینا۔

خَرَسَ (س) خَرَسًا — کمزوری
کے بعد کسی امر کو درست مضبوط

کرنا۔

الْخَرَسُ — ڈورے میں پروئے ہوئے
گھونگے سلیمانی منکے یا کوڑیاں۔

شیشے وغیرہ کے سوراخ دار
دانے۔ پتھر کے ٹنگے۔ واحد

(خَرَسَةٌ) — "وخرود
الظہر" ریڑھ کی ہڈی کے

منکے — خُرَزَاتُ الْمَلِكِ
بادشاہ کے تاج کے جواہر۔

الْخُرْدَةُ — سوراخ اور اس کا دھاگا
ج۔ خَرَسٌ۔

الْخَرَزَةُ — موچی کا پیشہ۔ طائر
مُخَرَسٌ — وہ پرندہ جس کے

بازوؤں پر چتیاں پڑی ہوں۔
الْخَرَسُ — ستالی۔

خَرَسَ (س) خَرَسًا — گونگا
ہونا۔ بے آواز ہونا —

أَخْرَسَهُ اللَّهُ — گونگا بنانا۔
— أَخْرَسَتِ الْأَرْضُ

واستخرست — زمین کا
ناقابل زراعت ہونا۔

خَرَسَ — عَلَى النَّفْسَاءِ زُجْرَةٌ
اس کی خوراک دینا۔

تَخَارَسَ — بناوٹی گونگا بنانا۔
تَخَرَّسَتْ — النَّفْسَاءُ زُجْرَةٌ

اپنے لیے کھانا تیار کرنا۔ اور
اسی سے یہ مثل ہے۔ تَخْرُسِي

يَا نَفْسُ لَا مَخْرَسَةَ لَكَ
یعنی تو اپنا کام خود ہی کر۔ کوئی

دوسرا کام کرنے والا نہیں۔
الْخُرُسُ وَالْخُرَّاسُ — بچہ کی

پیدائش کا کھانا۔

الْخُرْسَةُ وَالْتَّخْرُسَةُ — زچہ کا
قصص کھانا۔ اچھوانی۔

الْخُرْسُ وَالْخُرُسُ — مٹکا۔
ج۔ خُرُوس — الْخُرُسُ۔

ناقابل کاشت زمین۔
الْخُرَّاسُ — مٹکا بنانے والا۔ یا بیچنے

والا۔
الْخُرُوسُ — وہ زچہ جس کے لیے

اچھوانی تیار کی جائے۔
الْأَخْرَسُ — گونگا۔ ج۔ خُرُس

وْخُرَّاسٌ وَآخَارِسُ — مُونٹ
خُرَّسَاءُ — لبن اُخروس۔

جما ہوا دودھ۔ کہا جاتا ہے۔
"وَلَا يَنِي عَرَصًا أَخْرَسٌ"

أَمْرَسٌ — یعنی اس نے مجھ سے
منہ موڑ لیا اور بات نہیں کی۔

الْخُرَّسَاءُ — مصیبت۔ نہ گرجنے اور
چکنے والا بادل۔

خَرَشَهُ (ض) خَرَشًا وَخَرَشَهُ —
وْخَارَشَهُ — مُخَارَشَهُ و

خَرَشًا وَاخْتَرَشَهُ — خَرَشَ
لَكَ نَاكَهْرِيْنَا — هَذَا الذُّبَابُ

مکھی کا کاٹنا۔
خَرَشَ وَخَرَشَ — الْغُصْنُ

ٹہنی کو ٹیڑھی چھڑی سے اپنی
طرف کھینچنا۔

خَارَشَ — الْكَلْبُ — بَرَاغِيْنَةُ
کرنا۔ خَرَشَ وَاخْتَرَشَ

لَعِيَالَهُ — بال بچوں کے لیے
رِزْقٌ طَلَبَ كَرَنًا كَمَانًا۔

اخترشت الجراء — ایک
دوسرے پر حملہ کرنا۔ خَارَشَهُ

الشَّيْءَ — وَاخْتَرَشَ مِنْهُ
الشَّيْءَ — چھیننا۔ زبردستی لے

لینا۔

خ

تَخَارَشَتْ — الکلاب بکتوں کا ایک دوسرے پر حملہ کر کے نوچنا۔ بھاڑنا۔
 الْخَرَش — مکھی۔ واحد (خَرَشَه) گھر کا ردی پرانا سامان۔ ج خُرُوش۔
 الْخُرَاشَةُ — برادہ۔
 الْخُرُشَاءُ — سانپ کی کینچلی۔ انڈے کا چھلکا۔ غبار۔
 خُرُشَاءُ الْعِصَل — موم۔ وہ شہد جس میں مردہ مکھیاں پڑی ہوں۔ ج۔ خُرَاشِي۔
 خَرَشَبٌ — الْعَمَل — کام کو اچھی طرح نہ کرنا۔ ادھورا کام کرنا۔
 الْخُرَشْفَةُ — مختلط کلام۔ حرکت (۔) وَالْخُرَشَافُ — وہ سخت زمین جس پر چلنا دشوار ہو۔
 الْخُرَشُوف — ایک قسم کا خاردار پودہ۔
 الْخُرَشُوم — وادی یا ہموار زمین پر نکلی ہوئی بہاڑ کی چوٹی۔ بڑا پہاڑ ج۔ خُرَاشِيم۔
 خَرَصَ (ن ض) خَرَصًا۔ جھوٹ بولنا۔ فی الامر۔ تخمینہ لگانا۔ اندازہ لگانا۔ اٹکل سے کہنا۔ قیاس کرنا۔ کہتے ہیں۔ "خرص النخلۃ" اس نے درخت خرما پر کھجوروں کا تخمینہ لگایا۔ اٹکل سے اندازہ کیا۔
 خَرَصَ (ن) خَرَصَةً — الشئ درست کرنا۔
 خَرَصَ (س) خَرَصًا۔ بھوکا ہونا۔ ٹھنڈ پانا۔ صفت (خَرِصَ وَخَارِصَ،

تَخَرَّصَ دَاخَرَصَ — علیہ۔ بہتان باندھنا۔ تہمت لگانا۔ جھوٹ بولنا۔ توشہ دان میں رکھنا۔
 الْخَرَصُ — اندازہ۔ کہتے ہیں۔ "کم خَرَصُ اَرْضِكَ" تمہاری زمین کا اندازہ اور تخمینہ کیا ہے توشہ دان۔ چھوٹا نیزہ۔ بھالا مٹکا۔ ٹوکری۔
 الْخُرُصُ وَالْخُرُصُ — ج خُرُصَانُ وَخُرُصَانُ۔ سونے چاندی وغیرہ کی انگوٹھی۔ ج۔ أَخْرَاصُ وَخِرَاصُ۔ کھجور کی شاخ۔
 الْخُرُصُ وَالْخُرُصُ وَالْخُرُصُ — شہد نکالنے کی لکڑی۔ ج۔ أَخْرَاصُ۔
 الْخُرُصَةُ — حصہ۔ زچہ کا کھانا۔
 الْخُرُيُصُ — ٹھنڈا پانی۔ درختوں کی جڑوں میں جمع شدہ پانی۔ نہر کی جانب۔
 الْخَرَّاصُ — جھوٹا۔
 الْخَرِصُ — نیزہ۔ ج خَرِصَانُ خَرَطَ (ن ض) خَرَطًا۔ درخت کے پتے ہاتھ کے ساتھ کھینچ کر اتارنا۔ الْعِنَقُودُ — انگوڑی کا خوشہ منہ میں رکھ کر بغیر دانہ کے نکالنا۔ الشَّجَرَةُ — درخت کے پتے کھینچ کر اتارنا۔
 الْعُودُ — خُود — خُود سے لکڑی کو برابر اور ہموار کرنا۔
 الْحَدِيدُ — لوہے کو عمود کے مانند لمبا کرنا۔ الْجَوَاهِرُ — جواہرات کو تھیلے میں ڈالنا۔
 جمع کرنا۔ الْبَازِي — بازو شکار پر چھوڑنا۔ الرَّجُلُ — فی الامر۔ کسی کو کسی کام میں

لگانا۔ الرَّجُلُ — جھوٹ بولنا۔
 خَرَطَهُ (ن) وَخَرَطَهُ — الدَّوَاءُ دوا کا اسہال لانا۔
 خَرِطَتُ (س) خَرَطًا وَخَرِطَتُ بکری یا اونٹنی کو خرط کی بیماری لاحق ہونا۔ خرط بالطعام کھانے سے پھندا لگانا۔
 تَخَرَّطَ — فی الامر۔ دیری و خود سری کرنا۔
 اِنْخَرَطَ — الْجِسْمُ — جسم کا دبلا اور لاغر ہونا۔ "انخرطت الخرزۃ فی السلك" منکوں کا ڈورے میں پرویا جانا۔
 انخرط فی المکان — جلدی سے داخل ہونا۔
 المکان — کسی جگہ سے نکلنا۔
 فی الامر — کسی کام میں جہالت نادانی سے لگ جانا۔
 الصَّقَرُ — شکرے کا شکار پر ٹوٹ پڑنا۔ بطن الانسان اسہال کی شکایت ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ "انخرط علينا بالقبيح" وہ ہماری طرف فحش گوئی و بد زبانی کے ساتھ متوجہ ہوا۔
 اخترط — السيف — تلوار سونٹنا۔
 — العنقود — انگوڑی کے کو منہ میں رکھ کر بغیر دانے کے نکالنا۔
 اسْتَخَرَطَ — فِي الْبُكَاءِ — پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ الْخُرَاطُ — خُود کا کام کرنے والا۔ کھادی۔ بڑا جھوٹا۔
 الْخَرَطُ — جسم کی کمزوری۔ ایک بیماری ہے۔ جب وہ جانور کو لگ جاتی ہے تو جھا ہوا وودھ اس کے ہتھوں

سے نکلتا ہے۔

الخُرُوط۔ منہ زور جانور۔ ج۔

خُرُط۔ بے عقل اور نادانی

سے کاموں میں دخل دینے والا۔

الخِرَاطَةُ۔ خُراد کے کام کا پیشہ۔

الخِرَاطَةُ۔ برادہ۔

الخُرَيْطَةُ۔ خیل۔ ملک کا نقشہ۔

اٹلس۔ اس کا دوسرا نام خارطہ

بھی ہے۔ عربی اس کی مَصَوَّر۔

یا مَحْطُط۔ ہے۔

المُخْرُوط۔ وہ بکری یا اونٹنی جس کو

خرط کی بیماری لگ جائے۔ ج۔

مخاریط۔

المُخْرُطَةُ۔ خُراد کرنے کا اور ار۔

ج۔ مَخَارِط۔

المُخْرُوط۔ منع۔ تھوڑی داڑھی

والا۔ لمبا چہرہ۔ عند

اهل المساحۃ۔ مخروطی شکل

والا تنگ کنواں۔

الخُرُطِيُّط۔ منقش بازوؤں والی

تیرری۔ ج۔ خُرَاطِيْط۔

الخُرُطَل۔ ایک قسم کا غلہ۔

الخُرُطُوم۔ والخرطوم۔ ناک

ہاتھی کی سونڈ۔ جلد نشہ لانے

والی شراب۔ انگور کا پانی جو ملنے

سے پہلے نکلے۔ خُرَاطِيْمُ

القوم۔ قوم کے سردار۔

خُرُطَمَہ۔ سونڈ پر مارنا۔

اِخْرَاطَمَہ۔ ناک اونچی کرنا۔

غضہ ناک ہونا۔ تکبر کرنا۔

خُرَعہ (د)۔ خُرَعًا۔ بھاڑنا۔

خُرَع (س)۔ خُرَعًا۔ الشئ

لوثنا۔ (د)۔ داخروج و تخرج

الرجل۔ سست ہونا۔

مُزَوَّرَئِے والا ہونا۔ کمزور جسم

کا ہونا۔ انخرعت

القناة۔ پھٹنا۔ ٹکڑے ٹکڑے

ہونا۔

خُرَع (د)۔ خُرَاعَةٌ و خُرَعًا۔

و خُرُوعًا۔ نرم اور ڈھیلے

جوتوں والا ہونا۔ صفت۔

(د خروج و خرويع)

خُرَع۔ الثوب۔ کپڑے کو

عصفر و کسم کے رنگ میں رنگند

اِخْتَرَع۔ الشئ۔ بھاڑنا۔ پیدا

کرنا۔ نئی بات ایجاد کرنا اور

اس سے الخزعة ہے۔

فلاناً۔ کسی کے ساتھ خیانت

کرنا۔ کسی کو دھوکا دینا۔

الدابة۔ کسی کے جانور کو بیگار

کے طور پر چند دن کے لیے لینا

اور پھر واپس کر دینا۔

الخُرَاعَةُ۔ مص۔ بیباکی۔

الخُرُوع۔ ازبھی کا پردہ جس

سے کسٹرائل بنتی ہے۔ واحد

(خروعة)

الخُرَاع۔ اونٹنی کی دیوانگی۔ اونٹنی

کی پشت کی شکستگی۔

الخُرُوع و الخُرَيع و الخُرُوع

من النساء۔ نرمی و نزاکت سے

جھکنے والی عورت۔ ج۔

خُرَاع و خُرُوع۔ عیش

خُرُوع۔ خوش حال زندگی۔

رجل خریع۔ کمزور

آدمی۔ ناقص خریع و

مخروعة۔ دیوانی اونٹنی۔

خُرُوف (س) و خُرُوف (د)۔ خُرُوفًا۔

بڑھاپے کے سبب فاسد عقل

ہونا۔ صفت (خُرُوف) مؤنث

(خُرُوفَة)

خُرُوف (د)۔ خُرُوفًا و خُرُوفًا و

خُرُوفًا و خُرُوفًا۔ الثمر۔ پھل

چننا۔

خُرُوفت۔ الارض۔ زمین پر

خریف کی بارش برسا۔ صفت

(مخروفة)۔ البهائم

موسم خریف آجانا۔ یا چوپایوں

کے چرنے کے لائق سبزہ آگ آنا

خُرُوفَة۔ فساد عقل کی طرف کسی کو

منسوب کرنا۔

خَارِفَة۔ مَخَارِفَة و خَوَانَا۔ موسم

خریف میں کسی سے معاملہ کرنا۔

أَخْرَفَة۔ خراب و فاسد کرنا۔

اخرفت الشاة۔ بکری کا موسم

خریف میں بچہ دینا۔ أَخْرَف

الرجل۔ موسم خریف میں داخل

ہونا۔ الثمر۔ پھل توڑنے کا

وقت قریب آ پہنچنا۔

أَخْتَرَف۔ الثمر۔ پھل چننا۔

فی مکان۔ کسی جگہ موسم

خریف میں اقامت کرنا۔

الخَوَاف و الخَوَاف۔ پھل چننے کا

زمانہ۔

الخَوَافَة۔ بے عقلی کی ہنسی والی بات

الخُرُوف۔ بکری کا بچہ۔ ج خُرَاف

أَخْرَفَة و خُرَافان۔

الخُرُوفَة۔ بکری کا مادہ بچہ۔ وہ کھجور

کا درخت جس کا پھل توڑا جائے

الخُرُوفَة۔ چننا ہوا میوہ۔

الخُرُوف۔ موسم گرما و سرما کے درمیان

کا زمانہ۔ موسم خریف کی بارش

نسبت کے لیے (خُرُوفِی و

خُرُوفِی و خُرُوفِی) تازہ چنی ہوئی

کھجور۔

الخُرُوفَة۔ وہ کھجور کا درخت جس سے

نر کجوریں توڑی جائیں۔

الْخُرَاقَةُ - بیسودہ کلام۔ باطل بات

ج۔ خُرَاقَات - چٹا ہوا پھل

الْمُخْرِف - چھوٹی ٹوکری جس میں

عمدہ تازہ کجوریں ڈالی جائیں۔

ج۔ مَخَارِف - درخت خرما کی دو

قطاروں کے درمیان کا راستہ

ج۔ مَخَارِف - بڑھاپے کی

وجہ سے عقل کی خرابی۔

الْمُخَارِف - من الوجال - محروم۔

خُرُقَش - الشَّيْء - ملانا۔

خُرُقَ رَنْضٍ - خُرُقًا - الثَّوْب -

کپڑا پھاڑنا۔ خَلَا بَنًا

بالرْمَح - کسی کے نیزہ مارنا۔

الْكَذِب - جھوٹ بات بنانا

الْمَفَادَةُ - رِیْگَسْتَان عبور

کرنا۔ الْعَادَةُ - عادت و

رسم کو توڑنا۔ الْبِنَاء و

فِي الْبِنَاء - عمارت میں روشندان

رکھنا۔ الرِّيح - ہوا کا

تیز چلنا۔ الرَّجُل - جھوٹ

بولنا۔

خُرُقَ دَنْ، خُرُوقًا - فِي

الْبَيْت - لگاتار قیام رکھنا۔

خُرُقَ (س) خُرُقًا - خُوف یا

شرم کی وجہ سے دہشت زدہ

ہونا۔ صفت (خُرُق) - فِي

الْبَيْت - گھر میں لگاتار قیام

رکھنا۔ الْغَزَالُ أَوِ الطَّائِرُ

ہرن یا پرندہ کا اٹھنے یا اڑنے

سے عاجز ہونا۔

خُرُقَ (س) وَخُرُقَ دَنْ خُرَاقَةً -

بے وقوف ہونا۔ بے ہمز ہونا۔

صفت (أَخْرَقَ)

خَرَقَهُ - پھاڑنا۔ خَرَقَ

الرَّجُل - بہت جھوٹ بولنا۔

أَخْرَقَهُ - دہشت زدہ کرنا۔

تَخَرَّقَ وَخَرَّقَ وَخَرَّدَقَ - پھٹنا۔ دَخَرَّقَ الْكَلِمَ

جھوٹ گھڑنا۔ تَخَرَّقَ فِي

الْكُرْم - فیاضی وسیع پیمانہ پر

کرنا۔ تَخَرَّقَتْ وَخَرَّقَتْ

الرَّيْح - ہوا کا تیز چلنا۔

أَخْتَرَقَ - الْأَرْض - زمین میں ایک

طرف کو بغیر راستہ کے چلنا۔

الْقَوْم - قوم کے درمیان

چلنا۔ الْكَذِب - جھوٹ گھڑنا۔

الْخُرُق - مَص - سوراخ۔ شِكَات

چٹیل۔ بیا بان۔ بے آب و گیاہ

بیا بان۔ کفادہ و فراخ زمین

جس میں ہوائیں تیز چلیں۔ ج

خُرُوق -

الْخُرُق - ج۔ أَخْرَاقَ وَخُرُقَ

خُرُوقَ د - الْخُرُوقِ (مبالغہ

کے طور پر) فیاض - سخی۔

الْخُرُقِ وَالْخُرُقِ وَالْخُرُقَةِ - رائے

کی کمزوری۔ نامناسب استعمال

جہالت۔ بے وقوفی۔ سستی۔

نومۃ الْخُرُق - چاشت

کے وقت کی نیند۔ یہ اس لیے

کہ اس وقت سونا ہے وقوفی کی

نشانی ہے۔

الْخُرُقَةُ - کپڑے کا چھتڑا۔ دھبی۔

ج۔ خُرُق -

الْخَارِق - فَا - عجیب۔ غیر معتاد۔

مقتضائے عادت کے خلاف۔

ج۔ خَوَارِق -

الْخَرِيقَ وَالْخُرُوقَ - ٹھنڈی تیز

ہوا۔ الْخَرِيق - ہلکی ہوا۔

ج۔ خُرُق - دومی کا کشادہ

حَص - پانی کے بہنے کی جگہ۔

الْخُرُقَاء - أَخْرَقَ كَامُوثَ - فراخ

زمین۔ تیز ہوا۔

الْمُخْرَق - بے آب و گیاہ بیا بان۔

ج۔ مَخَارِق - مَخَارِقَ بَدَن

کے منافذ کو بھی کہتے ہیں مثلاً منہ۔

ناک وغیرہ۔

الْمَخْرَقَةُ - جھوٹ۔ گھڑت۔

الْمُخْرَاق - خول بصورت جسم والا۔ سخی

تجربہ کار۔ ج۔ مَخَارِقَ بَدَن

الْمَخَارِقَ بَدَن - دھبیوں سے بٹا ہوا وہ

کوڑا جس سے بچے کیلتے ہیں۔

الْمُخْرَق - تیز رفتار۔

الْمُخْتَرَق - گذرگاہ۔ مَخْتَرَق

الرياح - ہواؤں کے چلنے کی

جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ "مکان

خاوی المَخْتَرَق" وہ جگہ جہاں

کوئی چلنے والا نہ ہو۔ آمدورفت

نہ ہو۔

خَرَمَهُ دَنْ، خَرَمًا - شِكَاتِ ذَانَا

سوراخ کرنا۔ خَرَمَ الْخَزْفَةَ -

توڑنا۔ ناک کی درمیانی بڑی کا

چھیدنا۔ الْآبُودَةُ - سوئی کا

ناک توڑنا۔ عَنْ الطَّبِيقِ

راستہ سے ہٹنا۔ کہتے ہیں۔

"خَرَمَتَهُ الْخَوَارِمَ" یعنی وہ مر

گیا۔ وَ مَا خَرَمَتْ مِنْهُ

شَيْءٌ - میں نے اس میں سے کچھ

بھی کم نہیں پایا۔

خَرَمَ دَس، خَرَمًا - ناک کی بڑی کا

چھیدنا۔ صفت (أَخْرَمَ)

خَرَمَ دَك، خَرَامَةً - شوخ و

بے باک ہونا۔ صفت (خَارِمَ

و خَوِیْمَ)

خَرَمَ الْخَوْسَنَةَ - سوراخ کرنا۔



تَخَرَّمَ - ٹوٹنا۔

تَخَرَّمَهُ وَاخْتَرَمَهُ - ہلاک کرنا۔ جڑ و بنیاد سے کھودنا۔
اخترمہ المرض - بیماری کا کسی کو دبلا و لاغر کر دینا۔
تَخَرَّمَتَهُ وَاخْتَرَمَتَهُ الْمَنِيَّةُ - اس کو موت نے آن لیا۔

اُخْتُوم - عٹا۔ مڑا۔

اِنْخَرِمَ - انقذ۔ ناک کا چھد جانا پھٹ جانا۔ کہتے ہیں۔ اِنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ - یہ صدی ختم ہو گئی۔

الْخُرْم - پہاڑ کی نکلی ہوئی نوک۔

ج - خُرُوم۔

الْخُرْمَان - جھوٹ۔

الْخَرْمَةُ - ناک میں چھدنے کی جگہ۔

الْخَرْمَاء - چھدا ہوا کان۔

عَنْزَةُ خَرْمَاء - عرض میں پھٹے ہوئے کان والی بکری۔

الْخَرْمَةُ - انسان کی ناک کا بانسہ

یا دونوں نتھنوں کا درمیانی حصہ۔

الْأُخْرَم - مونڈھے کا کنارہ۔

شاہ روم کا لقب۔

الْأُخْرَمَان - اوپر کے جڑے کے

ہر دو طرف دو سوراخ دار ہڈیاں

الْمُخْرَم - پہاڑ کی نوک کا آخری

سرا۔ ج - فُخْرَام۔

فُخْرَامُ اللَّيْلِ - رات کی ابتدائی گھڑیاں۔

خَرْمَش - اکتاب۔ کتاب کو

خراب کرنا۔ بگاڑنا۔

خَرَفْتَهُ - بالسيف - تلوار سے

مارنا۔

الْخَرِيق - جوان خرگوش۔ ج

خَوَانِق -

الْخَوَانِق - بادشاہ کے کھانے

پینے کی مجلس۔ نعمان اکبر

ابن امرأ القیس کا محل، جو

عراق میں تھا۔ ایک قسم کا پودا۔

خَزْدَن، خَزَا - الحائط۔ دیوار

پر کلنے رکھنا تاکہ اس پر کوئی

نہ چڑھ سکے۔ خَزَا الثمر

بخیرن۔ کھجور کا قدرے ترش

ہونا۔ صفت (خَاثِر)۔

وَاخْتَزَتْهُ بِالرَّمْح نِزَه مَارَا

کہا جاتا ہے۔ خَزَتْهُ وَاخْتَزَتْهُ

بِبَصْرَةٍ - اس نے اس کو

اپنی نگاہ میں رکھا۔

الْخَزْد - ریشم۔ ریشم اور اون کا

بنا ہوا کپڑا۔ ج - خَزْدَس۔

الْخَزْدَس - خرگوش۔ ج - خَزْدَان

وَآخِذَةٌ -

الْخَزِيد - بہت ہی خشک عو سج۔

(ایک کانٹا)

الْخَزَاذ - ریشم کا سوداگر۔

الْمَخِذَةُ - خرگوشوں کی جگہ۔

خَزَبَ (س) خَزْبًا وَتَخَزَّبَ

— الْجِلْدُ - کھال کا بغیر درد

کے سوجنا۔ صفت (خَزَبَ)

— الْمَشَاةُ بکری کے تھنوں

کا سوجنا۔ صفت (خَزَبَتُهُ وَ

خَزَبَاءُ)۔

الْخَيْزَبُ وَالْخَيْزَبَان - نرم

گوشت کا ایک ٹکڑا۔ (خَيْزَبُهُ

وَخَيْزَبَانَةٌ)

الْخَرْبَانِ وَالْخَارِبَان - مبنی

علی الکسرة۔ باغ کی کھیاں

باغ کی مکھیوں کی بھینٹنا ہٹ۔

خَزَسَان، خَزْدَا - کنکھیوں سے

دیکھنا۔ چالاک ہونا۔ صفت۔

(خَايَس)

خَزَرَت (س) خَزَرًا - عینہ۔

تنگ آنکھ والا ہونا۔ صفت۔

(أَخْزَس) - مؤنث۔ خَزْسَاء

ج - خُزْس - خُزْس - الرجل

بھاگنا۔

خَزَسَ - الشَّيْءُ - تنگ کرنا۔

تَخَاَزَسَ - تیز نظر سے دیکھنے کے لیے

آنکھ کو سکیڑنا۔

الْخَزَس - آنکھ کی تنگی۔ ایک قوم جن

کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور

بحر خزر کے کنارہ پر رہتی ہے

اور اسی سے بحرال خزر یعنی

بحر کسپین۔

الْخَزْرَةَ - وَالْخَزْرَةَ - پیٹھ کا درد

الْخَزْرَةَ - سخت بھینٹنا۔ جس

میں آنکھ کا ڈھیلا کنپٹی والے گوشہ

کی جانب الٹ جاتا ہے۔

الْخَيْزَرَان - بانس۔ نیزے۔ نرکل

ہر نرم لکڑی۔ ایک ہندی

درخت جس کی لمبی جڑیں زمین

میں پھیلی ہوتی ہیں۔ واحد۔

خَيْزَرَانَةٌ - ج - خَيْزَرَس -

الْخَيْزَرَس - نرکل۔

الْخَوَزَرِي وَالْخَيْزَرِي - ناز و

انداڑ کی چال۔

الْخَزْمَج - جنوبی ہوا۔

خَزَرَفَ - فِي مَشِيَّة - ہاتھوں کو

اوپر نیچے ہلاتے ہوئے چلنا۔

خَزَعَم (ف) خَزَعًا وَتَخَزَعَمَ -

الشَّيْءُ - کاٹنا۔ عن القوم

پیچھے رہ جانا۔ خَزَعَمْنِهِ

شيثًا - لینا۔ تَخَزَعُوا

الشَّيْءَ - آپس میں بانٹ لینا۔

خ

خَزَمَ - الشَّيْءَ - کَاطَنًا - الشَّيْءَ
بَيْنَهُمْ - تَقْسِيمَ كَرِينَا.
اِنْخَزَعَ - الْحَبْلُ - رَسِي كَابِيحٍ
سے کٹ جانا - الرَّجُلُ آدَمِي
کا بڑھاپے اور کمزوری کے باعث
جھکنا۔
اِخْتَزَعَهُ لِينًا - عَنِ الْقَوْمِ
جدا کر لینا۔
الْخَزَاعُ - مَوْتُ -
الْخَزْعَةُ - اِيكِ پاؤں سے لنگڑاپن۔
الْخَزْعَةُ - گوشت کا ٹکڑا۔
الْخَزَاعَةُ - كِسِي چیز کا ٹکڑا۔
الْخَزْعُ - بڑھیا۔
الْخَزْعَةُ - رِيكِ کا تودہ جو بڑے تودہ
سے جدا ہو۔
الْخَزْوُ - وَهْ جو لوگوں کے مالوں کو
اڑالے۔
الْخَزْعِيلُ وَالْخَزْعِيلُ وَ
الْخَزْعِيلُ - خَوْش طَبْعِي كِي باتیں۔
كہانیاں - بِيهْوَدہ باتیں۔
الْخَزْعِيلَةُ - خَوْش طَبْعِي - مذاق۔
خَزَعَلَ - فِي مَشْيِهِ - چلنے میں
لنگڑانا - الْمَاشِي پاؤں کو
جھاڑنا۔
الْخَزْعَلُ - بِجَوِّ -
الْخَزْعَالَةُ - خَوْش طَبْعِي - كَسِيل كُودُ -
خَزَفَ (ض) - خَزَفًا - فِي مَشْيِهِ
چلنے میں ہاتھ ہلانا - الثَّوْبُ
پھاڑنا - الشَّيْءُ چیرنا۔
الْخَزَفُ - وَاحِدُ خَزْفَةٍ - مَشْكِي
مٹی کے کپے ہوئے برتن۔
الْخَزَافُ وَالْخَزَفِيُّ - مِثْلُ كِي برتن
بنانے یا بیچنے والا۔ كہار۔
خَزَقَهُ (ض) - خَزَقًا - نِيْزَ آہستہ
مارنا - خَزَقَهُ بِالْمَسْهِمِ

تیر مارنا - خَزَقَ الطَّائِرُ
پرندہ کا بیٹ کرنا - الشَّيْءُ فِي
الْأَرْضِ - زَمِينَ مِثْلُ كِي چیز کا ٹٹنا۔
تَخَذَقَ - وَانْخَذَقَ - مِثْلُ كِي جانا۔
چھد جانا۔
اِخْتَزَقَ - السَّيْفُ - تَلَوَارِ كِي مِثْلُ
سے نکلنا۔
الْخَازِقُ - فَا - نِيْزَ کا پھل۔
الْخَازِقُ - اِيكِ نوکدار لمبا ڈنڈا
جس کو مجرم کے مقعد میں داخل کر
کے سولی دی جاتی تھی۔ ج
خَوَازِيقُ - مَوْلِدِينَ نِے اِسی
سے فِعْلُ (خَوَزَقَ) بنایا ہے۔
المخزقة - بَرَجِي۔
خَزَلَ (س) - خَزَلًا - مِثْلُ كِي
صفت (اِخْزَلَ وَفَخَزُولُ)
خَزَلَ (ض) - خَزَلًا - الشَّيْءَ - كَاطَنًا
- عَنِ حَاجَتِهِ - رُكْنَا۔
تَخَزَّلَ - كُنْثَا - بُوْجْهِل چلنا سُسْت
چلنا۔
اِنْخَزَلَ - گرانباری سے چلنا۔
فِي كَلَامِهِ - رُكْنَا - بِنْدَ بُونَا
- عَنِ الْجَوَابِ - جَوَابُ سِے
لا پرواہی کرنا - عَنِ الْمَكَانِ
كِسِي جگہ سے علیحدہ ہونا۔
اِخْتَزَلَ - الشَّيْءَ - كِسِي چیز کو کاٹنا
- عَنِ لُكْنَا -
بِرَأْيِهِ - اِپْنِي عَلِيْمِدَہ رَآئِے رُكْنَا۔
- عَنِ قَوْمِهِ قَوْمُ سِے
علیحدہ کرنا - الْوَدِيعَةُ - اَمَانَتُ
مِثْلُ كِي خِيَانَتُ۔
الْخُزْلَةُ - مِثْلُ كِي شَكْسَكِي۔
الْخُزْلَةُ - مَرَادُ سِے رُكْنِے والا۔
الْخُزُولِيُّ وَالْخُزِيلِيُّ - سُسْت چال۔
خَزَمَ (ض) - خَزَمًا - الْوَدِيعَةُ

موتی پرونا۔ (س) وَخَزَمَ
الْبَعِيرُ - اَوْنَطُ كِي نَاكِ مِثْلُ
چھلا ڈالنا۔ كِتْے مِثْلُ "خَزَمَ"
اَنْفَ فُلَانٍ "يَا" جَعَلَ فِي
اَنْفِهِ الْخِزَامَةَ "اِسْ نِے
فُلَانِ كِي نَاكِ مِثْلُ نَاخِے ڈال دی۔
یعنی عاجز بنا دیا۔ اور تَابِعَ کر لیا۔
خَازِمَةُ - فِخَازِمَةُ - الطَّرِيقُ - دُو
مُخْتَلَفَ رَاسْتُوں سِے چل کر اِيكِ
جگہ آکر ملنا۔
تَخَزَّمَ - الشُّوْنُ فِي رَجُلِهِ - كَانْطِے
کا پاؤں مِثْلُ چھنا۔
تَخَازَمَ - الْجَبِشَانُ - دُو فَوْجُوں کا
اِيكِ دُوسرے كِے مُقَابِلِے آنا۔
الْخَزَمُ - اِيكِ درخت جس كِي چھال
سِے رَسِيَاں بُٹتے مِثْلُ۔
الْخَزَامِيُّ وَالْخِزَامُ - اِيكِ پودا
جس كِے پھول بَہْتِ خَوْش بُوْدَارِ
ہوتے مِثْلُ۔
الْخِزَامَةُ - بَارِيكِ چڑا جس سِے
دَوْلَتِ مَنَدُوں کو باندھتے مِثْلُ۔
ج - خَزَائِمُ - الْاَخْزَمُ - نَرِ
سانپ۔
الْمَخْزَمُ - پھاڑی رَاسْتِے ج
مَخَازِمُ - شِرَاكُ مَخْزُومُ۔
كُٹا ہوا تسمہ۔
خَزَنَ (ن) - خَزَنًا وَ اِخْتَزَنَ -
الْمَالُ - مَالِ جَمْعِ كَرْنَا - ذَخِيرَہ كَرْنَا۔
- السَّرُّ - بَہِيدِ چھپانا۔
اللسان - زَبَانِ كُو رُكْنَا۔
اِخْتَزَنَ الطَّرِيقُ - قَرِيبِ تَرِينِ
رَاسْتِے اِخْتِيَارِ كَرْنَا۔
خَزَنَ (ن) - خَزَنًا وَ خَزُونًا وَ
خَزَنَ (س) - خَزَنًا وَ خَزَنَ
دَكْ - خَزَانَةُ - اللَّحْمُ



گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت
(خَزِين)

اَخْزَن۔ محتاجی کے بعد خوشحال
ہونا۔ مالدار ہونا۔

استخزنتہ۔ المال۔ مال جمع
کرنے کے لیے کسی سے درخواست
کرنے۔ استخزون المال۔
مال جمع کرنا۔ ذخیرہ کرنا۔

الخَزَانَةُ وَالْخَزِينَةُ۔ ذخیرہ کرنے
کی جگہ۔ ج۔ خَزَائِن۔

الخَزَانَةُ۔ خزانچی کا پیشہ۔
الخَزَائِن۔ فا۔ خزانچی۔

خازنُ الامیر۔ امیر کے مال
کی حفاظت کرنے اور اس کو

خرج کرنے کا ذمہ دار۔ ج
خَزْنَةٌ وَخَزَنٌ۔

الخَزَن۔ زبان۔
الخَزْنَةُ وَالْخَزِينَةُ۔ ذخیرہ۔ ذخیرہ

کیا ہوا مال۔
الخَزَن۔ زبان۔

المَخْزَن۔ ذخیرہ کرنے کی جگہ۔ ج
مَخَازِن۔ مَخَازِنُ الطَّرِيقِ

مَنْزِل مَقْصُودٍ تَمَكُّنُ بِنَظَرٍ كَقَرِيبٍ
تَرِینِ رَاسْتِی۔

خَزَاه (ن) خَزُوًا۔ غالب آنا
سیاست کرنا۔ خواہش نفعانی

سے روکنا۔ دشمنی کرنا۔
خَزَا لَدَا ابْنَةٍ۔ جانور کو سدھانا۔

خَزَى (س) خَزِيًا وَخَزِيًا۔ ذلیل
ہونا۔ خوار ہونا۔ مصیبت میں

پڑنا۔
خَزِيَةٌ وَخَزِيٌّ مِنْهُ خَزَايَةٌ

وِخَزِيٍّ شَرْمٌ كَرْنَا۔ صفت
(خَزِيٍّ) مُؤَنِّتٌ خَزِيَّةٌ۔ و

(خَزِيَّان) مُؤَنِّتٌ خَزِيَّاء۔

ج۔ خَزَايَا۔

خَزَمِي (ض) خَزِيًا۔ ہ۔ شرمندگی
میں ڈالنا۔ رسوا کرنا۔ فحشیت

کرنا۔ بہت زیادہ رسوا کرنا۔
خَزَاهُ مَخَازَاةً۔ شرمندگی میں ڈالنا۔

اَخْزَاهُ۔ اَخْزَاهُ۔ شرمندگی میں ڈالنا۔
ذلیل کرنا۔ امانت کرنا۔ جب

کسی سے کوئی اچھا فعل سرزد ہوتا
ہے تو کہتے ہیں: "اَخْزَاهُ اللہ"

مَا اشْعَرُهُ۔ جس طرح کہتے
ہیں: "قَاتِلَهُ اللہ مَا اشْجَعُهُ"

اس قسم کی دعاؤں میں معنی مراد
نہیں ہوتے۔

استخزى۔ شرمندگی محسوس کرنا۔
الخِزْي۔ ذلت۔ خوارى۔ عذاب۔

دوری۔
الخِزْيَةُ وَالْخِزْيَةُ۔ مصیبت۔

آفت۔ وہ عادت جس سے
انسان کو ذلیل ہونا پڑے۔

المَخْزَاة۔ باعث شرمندگی و
ذلت۔

خَس (س) خَسَاةً۔ و
خُسُوسَةً وَخِسَّةً۔ ذلیل

ہونا۔ وزن یا اندازہ میں کم ہونا
صفت (خس) ج۔ خَسَّاس

وَأَخْسَتْ۔
خَس (س) خَسًا وَخَسَسَ۔

نصیبہ۔ حصہ کم کرنا۔
أَخَسَّ۔ گھٹیا کام کرنا۔ ذلیل کام

کرنا۔ ہ۔ ذلیل پانا۔ حقارت
کرنا۔ أَخَسَّ حَقْلَهُ۔ حصہ

کم کرنا۔
تَخَاسَتُوا۔ الشئ۔ کسی کو آپس

میں لینا دینا اور اس میں سبقت
کرنا۔

اَسْتَخَسْتَهُ۔ ذلیل یا کمینہ پانا۔ ذلیل
یا کمینہ سمجھنا۔ حقیر ہانا۔

الخَس۔ ایک مشہور سبزی۔
خَس الحمار وخَس البقر۔

دو جنگلی گھاس کے نام۔
الخِساس۔ ہر وہ شے جس کا لین دین

لوگ آپس میں کریں۔
الخِساسَةُ۔ حقیر مال۔

الخِصِيَّةُ۔ الخسيس کا مؤنث
ج۔ مَسَاكِينُ۔ خَسَائِسُ۔

الاموس۔ حقیر باتیں۔
شئ (خَسَاةً) و (خَسُوسًا)

معمولی حقیر چیز۔ الخُصَان
وہ ستارے جو غائب نہ ہوں۔

جیسے بنات النعش۔
خَسَاء (ف) خَسَاءً۔ الکلب

کہتے کہ وہ ہتکارنا۔ (خَسَاءُ و
خُسُوعًا) البصر۔ نظر کا ٹھنکا۔

کمزور ہونا۔ (و خَسِي) (س)
خَسًا وَاِنْخَسَاءً)۔

الکلب۔ دور ہونا۔ ہتکارا ہونا
خَاسًا مَخَاسَاةً وَاِنْخَسَاءً

تَخَاسُوءًا۔ القوم۔ ایک
دوسرے کو ہتھ مارنا۔

الخِشِي۔ گھٹیا اون وغیرہ۔
الخَا بِي۔ فا۔ من الخنازير

والكلاب۔ دھتکارے اور ہتکارے
ہوئے کتے اور سور جن کو لوگوں

کے پاس نہ پھٹکنے دیا جائے۔
خَمِصَر (س) خَمِصَرًا وَخَمِصَرًا

خَمِصَرًا وَخَمِصَرًا وَخَمِصَرًا
وَمِصْرَانًا۔ گھٹا پانا۔ نقصان

اٹھانا۔ گمراہ ہونا۔ ہلاک ہونا۔
صفت (خَا بِي) و خَمِصَر

خَمِصَرِي

خَسَرَ (رض) خُسْرًا وَخُسْرَانًا۔
 — المیزان۔ کم تولنا۔ کم کرنا۔ گھٹانا۔ اِمَال۔ ضائع کرنا۔
 خُسْرَةٌ وَآخُسْرَةٌ۔ نقصان دینا گمراہ کرنا۔ ہلاک کرنا۔
 اخسر الرجل۔ کسی کا نقصان میں پڑنا۔ نقصان اٹھانا۔
 اخسر المیزان گھٹانا۔ کم کرنا۔
 الخايس۔ فا۔ كَرَّةٌ خَايسَةٌ۔ ناکام حملہ۔
 الخُسْرُ وَالْخُسْرَى۔ وہ شخص جو نقصان میں ہو۔ ج
 خَتَايسَةٌ۔ خَسِعَ۔ خَسَعًا۔ عنہ کذا۔ کسی سے کسی چیز کا دور کیا جانا
 خَايسُ الْقَوْمِ خَسِيعَتُهُمْ قوم میں ادنیٰ درجہ کا آدمی۔
 خَسَفَ (رض) خُسُوفًا۔ المکان کسی جگہ کا دھنس جانا۔ القمر چاند کو گھٹن لگنا۔ العين آنکھ کا جاتا رہنا یا گڑھے میں بیٹھ جانا۔ السقف چھت کا گرنا۔ الشئ کم ہونا۔
 — الرجل۔ دہلا ہونا۔
 خَسَفَ فِي الْأَرْضِ۔ وَخُسِفَ بِهِ۔ زمین میں دھنس جانا۔ (خُسْفًا)۔ الشئ۔ کاٹنا۔
 — العين۔ آنکھ پھوڑنا۔
 — اللَّهُ الْأَرْضَ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مع اس کی اوپر کی چیزوں کے دھنسا دیا۔
 اللَّهُ الْأَرْضَ بِفُلَانٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو زمین میں دھنسا

دیا۔ البئر۔ پتھر پیلی سنگ لایخ زمین میں کنواں کھودنا جو ہمیشہ جاری رہے۔
 فُلَانًا۔ کسی کو ذلیل کرنا اور ناگواری کی بات پر مجبور کرنا۔
 خَسَفَ۔ الشئ۔ خسف ہو۔ پھاڑنا اور پھٹ جانا لازم و متعدی،
 أَخَسَفْتُ وَالْخُسْفَتُ۔ عَيْنُهُ۔ آنکھ کا اندھی ہونا۔ الْأَرْضُ زمین کا مع اپنی اوپری چیزوں کے دھنس جانا۔ البئر۔ کنویں کا منہم ہونا۔ بیٹھ جانا۔
 الْخُسْفُ۔ مَصْ۔ عَيْب۔ ذَلَّت۔ کہتے ہیں۔ "سَامَهُ خُسْفًا وَخُسْفًا" اس نے اس کو ذلیل کیا اور مشقت میں ڈالا۔
 — الْخُسْفُ۔ کنویں کی سیر یا سوت۔
 الْخَايسُ۔ فا۔ دھنسی ہوئی آنکھ دہلا۔ بیماری کی وجہ سے کمزور و لاغر۔ بھوکا۔ ج۔ خُسْفُ۔
 الْخُسْفُ وَالْخُسْفُ۔ اخروٹ۔ واحد (خُسْفَةٌ) کہا جاتا ہے "باتوا على الخسف" انھوں نے بھوکے رہ کر رات کاٹی۔
 "وشرينا على الخسف" ہم نے بغیر کچھ کھائے ہوئے پیا۔
 الْخُسِيفُ۔ ج۔ أَخِيفَةٌ وَخُسُفٌ وَد۔ (الْخُسُوفُ) ج خُسُفٌ۔
 — مِنَ الْآبَاسِ۔ کنواں جو چٹان میں کھودا جائے اور اس کا پانی بند نہ ہو۔ الْخُسِيفُ مِنْ الْعَيُونِ۔ اندر کو دھنسی ہوئی آنکھ۔
 — مِنَ الْبَنُوقِ

بہت دودھ دینے والی اونٹنی، جس کا دودھ جاڑے میں جلد ختم ہو جائے۔ من السحاب۔ وہ اٹھنے والا بادل جو پانی سے بھرا ہو۔
 الْآخَايسُ وَالْآخَايسُفُ۔ نرم زمینیں۔
 خَسَقَ (رض) خُسْفًا وَخُسُوفًا السهم۔ تیر کا اچھی طرح نافذ نہ ہونا۔
 الْخَسَاقُ۔ بڑا جھوٹا۔ کہا جاتا ہے "هو ذو خسقات في البيع" یعنی وہ بیع کو کبھی نافذ کرتا ہے اور کبھی فسخ کرتا ہے۔
 خَسَلَهُ (ن) خُسْلًا۔ رذیل بنانا۔ جلا وطن کرنا۔ پھینک دینا۔ دور کرنا۔ الْخُسَالَةُ وَالْخُسَالَةُ رَدِي حِيزُ۔
 الْخُسِيلُ۔ حقیر۔ رذیل۔ ادنیٰ۔ ج خُسَالٌ وَخُسَائِلُ۔
 الْخُسُلُ وَالْخُسَالُ۔ رذیل اور کمزور۔
 الْمُخْسَلُ وَالْمُخْسُولُ۔ رذیل۔ حقارت کیا ہوا۔
 خَاَسَى مُخَاسَاةً وَآخُسَى۔ اخْسَاءٌ وَخُسْتَى مُخْسِيَةً۔ ہ ایک دوسرے کے ساتھ اخروٹ سے طاق و جفت سے کھیل کھیلنا۔
 الْخُسَا۔ طاق۔ ج۔ الْآخَايسُ خَسَقَ (ن) خُسْفًا۔ فیہ داخل ہونا۔ السحاب۔ بادل کا تھوڑی بارش برسانا۔ زیداً نیزہ مارنا۔ البعير۔ اونٹ کی ناک میں لکڑی ڈالنا۔
 ان خُسًا۔ فیہ۔ داخل ہونا۔

خَشَرَض (خَشَرَا - دسترخوان
پر ردی چیز کا چھوڑنا —
الشیء - کسی شے سے اس کا
ردی حصہ چن کر نکالنا۔
خَشَرَس (خَشَرَا - بزدلی سے
بھاگ جانا۔ حریص ہونا۔
الخُشَار والْخُشَارَة - ہر چیز کا ردی
حصہ۔ دسترخوان کا بچا کھچا۔ وہ
بوکا دانہ جس میں گودا نہ ہو۔
رفیل لوگ۔
خَايَشَرَة - الناس - رفیل لوگ۔
واحد (الخَايَشَر)
خَشَرَمَت - الصبغ - بجوکا کھلنے
میں آواز نکالنا۔ چپڑ چپڑ کرنا۔
الخَشَرَم - شہد کی مکھیوں یا بھڑوں
کا دل۔ شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔
شہد کی مکھیوں کی ملکہ۔ وہ نرم
پتھر جس سے چونہ بناتے ہیں۔
جہ۔ خَشَارِمَة -
الخُشَارِم - موٹی آواز۔ بڑی ناک۔
خَشَعَرَف (خَشُوْعَا - لہ فروتنی
کرنا۔ عاجزی کا اظہار کرنا۔
صفت (خَايَشَع) ج
خُشَع وَخُشَعَة وَخَايَشَعُونَ
— ببصرہ - آنکھ نیچی کرنا۔
— بصرہ - نگاہ کا پست ہونا
— الصوت - آواز کا پست
ہونا۔ الشمس - سورج کا
ڈوبنے کے قریب ہونا —
الورق پتے مرجھانا۔ الارض
بارش نہ ہونے سے زمین کا
خشک ہو جانا۔
أَخْشَعِيَه - عاجز کرنا۔ فروتنی پر
پرائیگیختہ کرنا۔
تَخْشَع - عاجزی دکھانا۔ خاکساری

لکڑی جیسا بنانا۔
اخْشَوْشَب لکڑی کی طرح سخت
ہونا — فی عیشہ۔ مشقت
پر صبر کرنا۔
الخَشَب - موٹی لکڑی۔ جہ
خَشَب وَخَشَب وَخَشَب
وَحُشْبَان -
الخَشَب وَالْأَخْشَب - موٹا کھدرا
— عیش خشب - ناپسندیدہ
زندگی۔ تکلیف والی گذران۔
الخَشَاب - لکڑی بیچنے والا۔ جہ
خَشَابَة -
الخَشَبَاء - وہ سنگ لاخ زمین جس
میں پتھر، کنکر اور گارا ہو۔
الخَشِيب - من السيوف ابھی کی
ڈھالی ہوئی تلوار۔ صیقل شدہ
تلوار۔ ردی۔ گھٹیا۔ صاف کی
ہوئی چیز — من القیس
تراشی ہوئی کمان۔ جہ خُشَب
وَحْشَابُث - لمبے قد والا۔ ظالم۔
کتے ہیں — "جمل خشیب"
موٹا اونٹ۔
المَخْشُوب - مخلوط نسل والا شخص
جس کو اچھی تعلیم و تربیت نہ دی
گئی ہو۔ اچھے طریقہ سے کام نہ
کرنے والا۔
المَخْشَاب - پست قدموں آدمی۔
خَشْخَش - خَشْخَشَة و
تَخْشَخَش - السلاح او
الحلی - ہتھیاروں یا زیورات
کی جھنکار سنائی دینا — فلاح
بین الشجر والاقوم۔ داخل
ہو کر غائب ہو جانا۔
الخَشْخَاش - پوسٹ کا پودا۔
واحد (خَشْخَاشَة)

— بین القوم - گھل مل جانا۔
الخَش - مص - تھوڑی بارش
وراز یا شکاف۔ کھردری چیز
پیادے۔
الخُش - ٹیلہ۔
الخَاش - فا۔ واحد (الخَش)
پیدل۔
الخِشَاش - زمین کے کپڑے مکڑے
چھوٹے پرندے۔ پہاڑی سانپ
اونٹ کی ناک میں ڈالنے کی
لکڑی۔ واحد (خَشَاشَة)
غصہ۔ کہا جاتا ہے "حَوَّك
خَشَاشَة" وہ غضبناک ہوا۔
— خَشَاشَة الشیء چیزوں کے
دونوں کنارے۔ جہ۔ آخِشَة
الخِشَاش - بُرا۔ ردی۔ شجاع بہادر
الخِشَاء - گارے اور کنکر والی زمین
جہ۔ خَشَاوَات وَخَشَائِث -
الخِشَاء - کان کے پیچھے ابھری ہوئی
بڈی۔
المِخْشَن - بہادر۔ جری۔ دل چلا۔
دلیر گھوڑا۔
خُشَب (ض) خَشَبَا - الشیء وبالشیء
ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ
ملانا۔ خلط ملط کرنا — الشیء -
صاف کرنا۔ چھانٹنا —
السيف - صیقل کرنا —
واخْشَب (بلا تفتح محض آمد
کے مطابق شعر کہنا —
اختشيب السيف - تلوار کو
لکڑی جیسا بنانا۔
خَشَب - الشیء - موٹائی میں لکڑی
کی طرح ہونا۔
تَخْشَب - چراگاہ میں سوکھی گھاس
چرنا — السيف - تلوار کو

دکھانا۔ دَخَشَفْتُ (فوتنی)
دکھانا۔

لَاخُشَعٌ۔ لہ۔ سر جھکاتے ہوئے
کسی کے سامنے عاجزی کرنا۔

الْخَاشِعُ۔ فا۔ مکان خاشع
وہ جگہ جس کی راہ نہ مل سکے۔

بَلَدَةٌ خَاشِعَةٌ۔ وہ
شہر جس میں ٹھہرنے کی کوئی جگہ

نہ ہو۔ جَدَّاسُ خَاشِعٌ
وہ دیوار جو گر کر زمین کے برابر

ہو جائے۔
الْخُشْعَةُ۔ مردہ ماں کے پیٹ کو

بھار کر زندہ نکالا ہوا بچہ۔
الْخُشْعَةُ پست ٹیلہ۔ ج۔ خُشَعٌ

خُشِفَ (ن ض) خُشُوفًا۔ و
خُشِفَانًا۔ ملک میں جانا اور

غائب ہو جانا۔ رات میں چلنا۔
الماء۔ پانی کا جم جانا۔

البرد۔ سردی کا تیز ہونا۔
(و۔ والخشف) فی الشئ۔ داخل

ہونا۔
خُشِفَ (ن ض) خُشَافَةً۔ بالقوم۔

ساتھ چلنا اور راہنمائی کرنا۔
راہبری کرنا۔ د۔ خُشَفَاو

خُشِفَةً، برف پر چلنے سے
برف کی آواز نکلنا۔ فی

السیر۔ تیز چلنا۔
خُشِفَ (س) خُشِفًا۔ البعير

اونٹ کے پورے بدن کا خارش
والا ہونا۔ صفت (اخشف)

مؤنث خُشَفَاء۔ ج خُشِفُ
خُشِفَ۔ راہنمائی کرنا۔ راستہ

دکھانا۔
خَاشَفَ۔ الی الشئ۔ برائی

کی طرف جلدی کرنا۔ سبقت کرنا۔

کہا جاتا ہے۔ خَاشَفَ (ن ض)
ذمہ، اس نے بد عمدی اور

عمر شکنی میں جلدی کی۔
خَاشَفَ السهم۔ تیر کا نشانہ

پر آواز دینا۔
أَخْشَفَتِ۔ الظَّيْفَةُ۔ ہرنی کا

بچہ والی ہونا۔
الْخَاشِفُ۔ فا۔ "سیف خاشف"

تیز تلوار۔ ماءٌ رَخَاشِفٌ
وخشف، جما ہوا پانی۔

الْخُشْفُ۔ بتخلیث الخاء۔ ہرنی
کا نوزائیدہ بچہ۔ ج۔ خُشْفَةٌ

(و۔ والخشف) سبز رنگ کی
لکھی۔ واحد۔ (خُشْفَةٌ)

الْخُشْفُ وَالْخُشْفَةُ وَالْخُشْفَةُ
آواز۔ حرکت۔ آبِ بَط

الْخُشْفُ۔ ذلت۔ الخشف
والْخُشْفُ گھٹیا قسم کا اون

الْخُشْفُ وَالْخُشْفُ۔ سخت
برف۔ نرم برف۔

الْخُشُوفُ۔ معاملات میں دخل
دینے والا۔ من الرجال

رات کو سفر کرنے میں دلیر و بہادر
من السیوف۔ تیز تلوار۔

الْخُشَافُ۔ چمکاؤ۔
الْمُخْشَفُ۔ پانی جمنے کی جگہ۔ برف

خانہ۔
الْمُخْشَفُ۔ راہبر۔ معاملات میں

دخل دینے والا۔ رات کو چلنے
میں دلیر و بہادر۔ شیر۔

خُشَلَهُ (ن) خُشَلًا وَخُشَلَةً۔
حقیر بنانا۔ رفیل بنانا۔

خشل الشراب۔ صاف کرنا۔
خُشِلَ (س) خُشَلًا۔ الثوب

کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

تَخَشَّلَ۔ ذلیل ہونا۔ سر جھکانا۔
ردی چیز لانا۔

الْخُشَلُ وَالْخُشَلُ۔ ردی چیز
الْخُشَلُ ہر کھوکھی ہون دار

شیء غالی کیا ہوا انڈا۔ واحد
(خشلہ) کہا جاتا ہے۔ رجل

(خُشَلٌ قُشَلٌ وَخُشَلٌ قُشَلٌ)
کمزور آدمی۔

خُشِمَهُ (ن ض) خُشِمًا۔ ناک کی
جڑ توڑنا۔

خُشِمَ (س) خُشِمًا وَخُشُومًا۔
چوڑی ناک والا ہونا۔ الانف

ناک کا بدبودار ہونا۔
خُشِمَ (س) خُشِمًا وَخُشِمَ

وَأَخْشَمَ وَتَخَشَّمَ۔ اللحم۔
گوشت کا بدبودار ہونا۔

خُشِمَ الشراب۔ شراب کا کسی
کو مست و متوالا کر دینا۔

الْأَخْشَمُ۔ چوڑی ناک والا۔ بو
محسوس نہ کرنے والا۔ انف

أَخْشَمَ بدبودار ناک۔ مؤنث
خُشِمَاء۔ ج۔ خُشِمَ

الْخُشُومُ۔ ناک کی جڑ۔ ج خِشَامِیم۔
الجیاشیم۔ ناک کے

نیچ کی رگیں۔ خِشَامِیم
الجبال۔ پہاڑوں کی چوٹیاں۔

کہتے ہیں۔ اشرف خِشَامِیم
الجبال۔

الْخُشَامُ۔ بڑی ناک والا۔ اونچی
چوٹی والا پہاڑ۔ شیر۔

خُشَنَ (ن) خُشْنَةً وَخُشَانَةً
وَحُشُونَةً وَمُخْشَنَةً۔

سخت اور کھردرا ہونا۔ صفت
(خُشِنَ) ج۔ خُشَات۔

خُشْنَةً۔ سخت اور کھردرا کرنا۔ کہا

جاتا ہے۔ "خَشَنَ صَدْرَهُ" اس نے اس کو سخت غضبناک کیا۔
 خَاشَتَهُ۔ سختی کا سلوک کرنا۔
 تَخَشَّنَ۔ سخت کھدرا ہونا۔ سخت زندگی گزارنا۔ موٹا کھدرا پہننا۔
 تَخَاشَنَ۔ بتکلف سختی برتنا۔
 اسْتَخَشَّنَ۔ الشئ کسی شے کو موٹا یا کھدرا پانا۔
 انْخَشَوْشَنَ۔ سخت کھدرا ہونا۔
 — علیہ صدرہ۔ غضب ناک ہونا۔
 الخَشِينِ۔ اکثر طبیعت کا۔
 الاَخْشَنَ۔ سخت و کھدرا۔ مؤنث۔
 خَشْنَاءُ۔ ج۔ خَشْنٌ۔ کہتے ہیں "رجلٌ اخشنٌ" بد حال آدمی "وہو اخشن الجانب یعنی وہ دشوار طاق سے زیادہ ہے۔" کتبیدہ خشناء بہت ہتھیاروں والا فوجی دستہ۔
 خَشِيَّةُ (س) خَشِيًّا و خَشِيًّا و خَشِيَّةٌ و خَشَاةٌ و خَشِيًّا و خَشِيَّةٌ و خَشَاةٌ۔ ڈرنا۔ خوف کرنا۔
 خَشَاةٌ تَخَشِيَّةٌ و خَشْنَاءُ۔ ڈرنا۔ مرعوب کرنا۔
 خَفَاةٌ۔ فلا ناً۔ کسی سے خوف دلانا۔
 تَخَشَّاهُ تَخَشِيًّا۔ ڈرنا۔ خوف کھانا۔
 الخَشِي وَالْخَاشِي وَالْخَشِيَانِ — والخشي۔ ڈرنے والا۔
 مُرْثَ خَاشِيَّةٍ و خَشِيَّةٍ و خَشِيَانَةٍ و خَشِيًّا۔ ج۔ خَشَايَا الخَشِي وَالْخَشِي — من النبات خشك گھاس۔ کہتے ہیں "هذا المكان اخشي من ذلك"



یہ جگہ اس سے زیادہ خوف کی ہے۔
 خَصَّ (ن) خَصًّا و خُصُوصًا و خُصُوصَةً و خُصِيَّةً و خَصِيَّةً۔
 خَصِيصِي و خَصِيصَاءُ۔
 — فلا ناً بالشئ۔ خصوصیت دینا۔ خاص کرنا۔ کہا جاتا ہے۔
 "خَصَّه بِالْوَدِّ" اس نے اسی سے محبت کی (خصوصاً) الشئ۔ خاص ہونا۔ الشئ لنفسہ۔ کسی شے کو اپنے لیے مخصوص کرنا یا چن لینا۔
 خَصَّ (س) خَصًّا و خُصُوصًا و خَصَّاصًا و خَصَّاصَاءُ۔ محتاج ہونا۔ مفلس ہونا۔ فقیر ہونا۔
 خَصَّصَ۔ الشئ۔ خاص کرنا۔
 — بالشئ۔ کسی کو کسی شے کے ساتھ خاص کرنا۔
 اخْتَصَّ۔ محتاج و فقیر ہونا۔
 بالشئ۔ خاص ہونا۔
 بالشئ۔ خاص ہونا۔ اور اسی سے ہے "اللہ یختص برحمته من یشاء" اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے۔ مخصوص کر لیتا۔
 تَخَصَّصَ۔ بالشئ۔ مخصوص ہونا۔
 منفرد ہونا۔ تَخَصَّصَ الرَّجُلُ خاص لوگوں میں سے ہونا۔
 اسْتَخَصَّ۔ الشئ۔ مخصوص ہونے کی درخواست کرنا۔
 الخَصَّ۔ بانس یا لکڑی کی جھونپڑی۔ شراب پیچنے والے کی دکان۔
 ج۔ اَخْصَاصٌ و خُصُوصِي و خُصَاصٌ۔ شہر (خص) ناقص مینہ۔
 الخاص۔ فا۔ عام کی ضد یکتا۔ تنہا۔

الْخَاصَّةُ۔ عامتہ کی ضد۔ خود اپنے لیے خاص کی ہوئی چیز۔ خاصۃ الملك۔ بادشاہ کے مقرب لوگ۔
 — خاصۃ النبات۔ بوٹی کی قوت و اثر۔ ج۔ خواص۔
 (ر) الخواص والخصان و الخصان)۔ من القوم قوم کے چیدہ اور بزرگ و برگزیدہ لوگ۔ کہتے ہیں۔ "انما يفعل هذا خصان الناس" اس کو برگزیدہ لوگ ہی کرتے ہیں۔
 الخاصیۃ۔ خاصتہ کی جانب نسبت ج۔ خاصیات و خصائص۔
 الاختص۔ افضل۔ کہتے ہیں "لحم یکن فی طبائہ اخص من ہذین"۔
 الخصاصۃ۔ انگوڑ توڑنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے جو بیل پر رہ جاتے ہیں۔ تھوڑا۔ قلیل۔ ج۔ خصاص۔
 الخصوص و الخصوص۔ علیہ کی خصوصیت۔ گویا عموم کا مقابل۔
 الاختصار۔ ضد اطلاق۔ کہتے ہیں۔
 "علی الخصوص و خصوصاً یعنی خاص طور پر۔ مثلاً حریری کا یہ قول "لن یصقل الخاطر و ینشط الفاتر۔ کفائلہ الہواجر و خصوصاً فی شہوی ناچر۔"
 الخصاص۔ مص۔ برقع یا دروازہ وغیرہ کا شکاف و سوراخ۔ کہتے ہیں "بد القمر من خصاص النعیم۔ چاند بادل کے درمیان سے ظاہر ہوا۔" و لمحتہ من خصاص الباب" میں نے اس

کو دروازہ کی جھری سے دیکھا۔
 مکان وغیرہ میں شکاف۔ واحد
 (خَصَاصَةٌ) کہا جاتا ہے
 "سَدَدْتُ خَصَاصَةَ فَلَانٍ"
 میں نے فلاں شخص کی محتاجگی و
 تنگی کو دور کر دیا۔
 خَوِصَّةٌ۔ الانسان۔ وہ شخص جو
 خدمت کرنے کے لیے مخصوص ہو۔
 خَصَبٌ (من) و خَصِيبٌ (س)
 خَصْبًا۔ المكان۔ کسی جگہ کا
 سرسبز ہونا۔ زرخیز و ہر ابھرا
 ہونا۔ مفت و خَصِيب و
 خَوِيب و مُخَوِيب و
 مَخْصَابٌ۔
 أَخْصَبَ۔ المكان۔ جگہ کا سرسبز
 ہونا۔ الله المكان۔ سرسبز
 کرنا۔ الشاة۔ بکری کا
 سرسبز میں پنپنا۔ القوم
 قوم کا سرسبز پانا۔ کہتے ہیں
 "اخْصَبَ جَنَابُ الْقَوْمِ" قوم
 کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔
 الْخَضْبُ۔ سبز گھاس کی کثرت۔
 زندگی کی فراخی و خوش حالی۔
 ج۔ أَخْصَابٌ۔ کہتے ہیں۔
 "بِلْدِ خَضْبٍ وَ أَخْصَابٍ"
 سرسبز و شاداب شہر۔ اس میں
 جمع مبالغہ کے لیے ہے۔ اور کہا
 جاتا ہے "أَرْضُ خَضْبٍ وَ
 أَرْضُ خَصْبٍ وَ
 خَضْبَةٌ أَوْ خَضْبَةٌ۔
 الْخِصَابُ۔ بہت پھل دار کھجور کا
 درخت۔ واحد۔ (خَصَابَةٌ)
 ۔ (رجلٌ خَصِيبٌ) صاحب
 خیر و فیض آدمی۔
 خَصِرٌ۔ (س) خَصْرًا۔ اليوم

دن کا ٹھنڈا ہونا۔ الرجل
 اطراف اعضاء میں سردی سے
 تکلیف ہونا۔
 أَخْصَرَ۔ الْقَدُّ أَنَا مَلَكٌ سَرْدِي
 کا انگلیوں کو ٹھنڈا کر دینا۔
 خَاَصَرَهُ مُخَاَصَرَةً۔ کسی کا ہاتھ پکڑ
 کر چلنا۔ کسی کے پہلو میں چلنا۔ یا
 کسی کے کمر میں ہاتھ ڈال کر چلنا۔
 اخْتَصَرَ۔ اپنے پہلو پر ہاتھ رکھنا۔
 ۔ الْكَلَامُ۔ کلام کو مختصر کرنا۔
 ۔ الطريق۔ قریب ترین
 راستہ اختیار کرنا۔ فی
 الشئ۔ کسی شے سے فضول حصہ
 حذف کر دینا۔ الرجل۔ ہاتھ
 میں لاٹھی وغیرہ لینا۔
 بِالْعَصَا۔ چلنے میں لاٹھی پر ٹیک
 لگھنا۔
 تَخَاصَرَ۔ اپنی کمر پر ہاتھ رکھنا۔
 الْقَوْمُ۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر
 ساتھ ساتھ چلنا۔
 تَخَصَّرَ۔ اپنے پہلو پر ہاتھ رکھنا۔
 بِالْإِخْصَرَةِ۔ لاٹھی کو اپنے ہاتھ
 میں تھامنا۔
 الْخَصِرُ۔ کمر۔ خَصِرُ الْقَدَمِ۔
 پاؤں کے تلوے کا وہ حصہ جو زمین
 سے نہ لگے۔ ج۔ خُصُوس۔
 الْخَصِرُ۔ ٹھنڈا۔
 الْخَصِرُ۔ ٹھنڈا۔
 الْخَصَارُ۔ آزار۔
 الْخَاَصِرَةُ۔ من الانسان۔ پہلو
 ج۔ خَوَاصِرُ۔
 الْمَخْصَرَةُ۔ ٹیک لگانے کی لاٹھی یا
 چھڑی وغیرہ۔ وہ چھڑی جس کو
 بادشاہ تقریر یا خطاب کے وقت
 اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ج

مَخَاصِرُ۔ مَخَاصِرُ الطَّرِيقِ۔
 نزدیک کے راستے۔
 الْمُخْصَرُ۔ باریک کروالا۔ کہتے ہیں۔
 "هُوَ مُخْصَرُ الْقَدَمِينَ" وہ شخص
 جس کا تلوار زمین پر نہ ٹکے۔ بلکہ
 صرف پنجہ اور ایری زمین پر لگے۔
 ۔ رجلٌ (مَخْصُوسٌ) وہ شخص
 جس کی کمر میں درد ہو۔
 اخْتَصَرَ۔ مختصر۔ اختصار۔ کا اسم
 تفضیل ہے اور شاذ ہے۔
 خَصَفَ (ض) خَصْفًا وَ أَخْصَفَ
 وَ اخْتَصَفَ۔ النعل۔
 جوتا سینا۔ جوتا دوہرا سینا۔ جوتے
 میں پیوند لگانا۔ الشئ علی
 الشئ۔ چپکانا۔ کہا جاتا ہے۔
 "هَمْ يَخْصِفُونَ أَقْدَامَ الْقَوْمِ
 باقدا امہم" وہ لوگ قوم
 کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان
 کی حرف و بحرف پیروی کرتے ہیں۔
 خُصِفَ۔ بد۔ پیچھے کیا جانا۔
 لاحق کیا جانا۔
 خَصَفَ۔ بد خلقی و بد مزاج ہونا۔
 جو کچھ اپنے پاس نہ ہو سکے تکلیف
 میں کوشش کرنا۔ کہتے ہیں۔
 "خَصَفَهُ الشَّيْبُ" بڑھاپے
 نے اس کے آدمے بال سفید کر
 دیے۔
 الْخَصْفُ۔ مص۔ جوتا۔
 الْخَصْفُ۔ رنگ جو سیاہ و سفید
 رنگ سے مل کر بنتا ہے۔
 الْخَصْفَةُ۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی
 ٹوکری۔ گاڑھا کپڑا۔ ج خَصَفَ
 و خَصَافَ۔
 الْخَصَفُ وَالْخَصْفَةُ۔ چڑے کا
 ٹکڑا جس سے جوتے کو سیاہ جاتے۔



الْخُصْفَةُ - جو تے وغیرہ کا سوراخ۔
 الْخَصَافَت - بڑا جھوٹا۔ موچی۔
 الْخَصِيفُ - راکھ۔ سلا ہوا جوتا۔
 تازہ دودھ جو دہی سے ملا ہوا ہو۔
 (د) وَالْخَصْفُ - سفید و سیاہ
 سفید پہلوؤں والا گھوڑا یا بکری۔
 الْخَصْفُ - ستالی۔ جر۔ تَخَاصَفُ
 — شَاةٌ مُخْصُوفَةٌ - سیاہ و سفید
 رنگ کی بکری۔
 خَصَلَ دَن (خَصَلًا - الشَّيْءُ - کاٹنا
 جدا کرنا۔ (خَصَلَ دَن) خَصَلًا
 وَخَصَلَانًا - القَوْمُ
 قوم سے قانع ہونا۔ فضیلت میں
 بڑھنا — خَصَلَهُ مُكْرَمٌ
 کرنا — الشَّجَرُ - درخت کو
 چھانٹنا۔
 خَاصَلَهُ - خِصَالًا وَخِصَالَةً -
 شرط باندھ کر تیر اندازی کرنا۔
 أَخَصَلَ - الرَّاغِي - ٹھیک نشانہ
 پر مارنا۔
 تَخَاصَلَ - القَوْمُ - تیر اندازی
 میں شرط باندھ کر مقابلہ کرنا۔
 الْخَصْلُ - تیر کا ٹھیک نشانہ پر لگنا۔
 شرط جو تیر اندازی میں مقرر ہو۔
 جس پر بڑا کھیل جائے۔ کہتے ہیں
 ”اِحْزِزْ خَصْلَهُ وَاصَابِ
 خَصْلَهُ“ یعنی وہ غالب ہوا۔ جر
 خُصُولُ۔
 الْخَصْلَةُ - عادت اچھی ہو یا بری۔ زیادہ
 استعمال اچھی عادت کے لیے ہے
 تیر کا ٹھیک نشانہ پر لگنا۔ جر
 خِصَال (د) وَالْخِصْلَةُ (گچھا۔
 کانٹے دار لکڑی۔ تر لکڑی کا کنارہ
 جر۔ خَصَلَ - الْخَصْلُ - لٹکے
 ہوئے درخت کا کنارہ۔

الْخَصْلَةُ - بالوں کا گچھا۔ بالوں کی چوٹی
 گوشت کا عضو۔
 الْخِصْلَةُ - بالوں کا گچھا۔ بالوں کی
 چوٹی۔ وہ گوشت جس میں پٹھا
 بھی ہو۔ جر۔ خَصِيلٌ وَخَصَائِلُ -
 کہا جاتا ہے۔ ”اِرْتَعَدَتْ
 فَرَايَصُهُ وَاضْطَرَبَتْ
 خَصَائِلُهُ“ اس کے شانہ کا
 گوشت لرزنے لگا اور پٹھے والا
 گوشت ہتر ہترانے لگا۔
 الْخِصْلُ - کانٹے والی تلوار (وَمَقْصَلُ
 میں ایک ضعیف نعت)
 الْخِصَالُ - وراثتی۔
 خَصَمَهُ (دَن) خَصَمًا - جھگڑنے میں
 غالب آنا۔
 خَاصَمَهُ - خِصَامًا وَخِصَامَةً -
 نزاع کرنا جھگڑا کرنا۔ ام (الْخِصْمَةُ)
 أَخَصَمَهُ - دلیل سمجھانا۔ کسی کے
 خلاف دلیل مہیا کرنا۔
 تَخَاصَمَ وَانْتَحَصَمَ - القَوْمُ
 ایک دوسرے سے نزاع کرنا۔
 جھگڑنا۔
 الْخِصْمُ - معر۔ مخالفت جھگڑا کرنے
 والا۔ تشبیہ۔ جمع اور مؤنث کے
 لیے بھی مستعمل ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے
 هَا وَهْمٌ وَهْيُ خِصْمِي - جر
 خُصُومٌ وَخِصَامٌ وَآخِصَامُ
 الْخِصْمِ - جانب۔ گوشہ۔ جر
 آخِصَامُ - وَخُصُومُ -
 الْخِصِيمُ - مخالف۔ جھگڑا کرنے والا۔
 — جر۔ آخِصَامُ وَخِصَمَاءُ
 وَخِصْمَانُ -
 الْخِصْمُ - جر۔ آخِصَامُ وَخِصْمُونَ
 وَالْخُصُومُ - جھگڑالو۔ مخالف
 مد مقابل۔

خَصِي (دَن) خَصَاءً - ۵ - خَصِي
 کرنا۔
 الْخِصِي - فوطوں میں درو والا۔
 الْخِصِي - خِصِي نِکالا ہوا۔ آخِصَةُ - جر
 خِصِيہ وَخِصِيَانُ -
 الْخِصِيَّةُ - فوط۔ برفینہ۔ خِصِيہ - جر
 خِصِي - خِصِيہ الْبَحْرِ -
 وَخِصِي الثَّغْلِبِ - وَخِصِيَّةُ
 الْدِيكِ وَخِصِيَّةُ الْكَلْبِ -
 مختلف نباتات کے نام ہیں۔
 خَصَصَ - الْجَارِيَّةُ - لڑکی کو سفید
 مہر اور منکوں سے آراستہ کرنا۔
 خَاصَّةً - مُخَاصَّةً - بیع بالعوض
 کرنا۔ تبادلہ کرنا۔
 الْخِصَصُ - سفید مہرے۔ بے ہودہ
 گفتگو۔ کہا جاتا ہے۔ ”مَنْطِقُ
 خِصَصٍ“ طرح طرح کے کھانے۔
 الْخِصَاضُ - روشنائی۔ قیدی کی
 بیڑی۔ کم حیثیت زہرور۔ کتے یا بلی
 وغیرہ کے گلے کا پٹہ۔ ”رَجُلٌ
 خِصَاضٌ وَخِصَاضَةٌ“ احمق و
 بیوقوف آدمی — مَكَانٌ
 (خِصِصُ) پانی سے تر جگہ۔
 خَضِبَ (دَن) خَضِبًا وَخَضِبَ
 الشَّيْءُ - رنگنا۔
 خَضِبَ (دَن) وَخَضِبَ (س) خَضُوبًا
 وَخَضِبَ - وَآخَضِبَ -
 الشَّجَرُ اِذَا لَمَكَانُ - درخت یا
 جگہ کا سرسبز ہونا۔
 تَخَضَّبَ وَآخَتَضَّبَ - يَا الْحَتَاءُ -
 رنگدار ہونا۔ رنگین ہونا۔ صفت۔
 (خَضِيبُ) جر۔ خَضِبُ وَ
 (مُخَضَّبُ وَمُخَضَّبٌ)
 اِخْضُوبًا - اِخْضِيبًا
 — الشَّجَرُ - درخت کا سرسبز ہونا۔

الخَضْبُ - مص. درخت کی سرسبزی۔
 بارش کے بعد نیا اُگا ہوا سبزہ۔
 جہ. خَضُوبٌ۔
 الخَضَابُ - رنگ۔ رنگ کرنے کی جگہ۔
 الخَضْبَةُ - بہت ہندی لگانے والی عورت۔
 الخَضُوبُ - بارش کے بعد نیا اُگا ہوا سبزہ۔
 الخَضِيبُ - رنگا ہوا۔ کہتے ہیں۔
 ”کف خضیب و امرأة خضیب“ رنگی ہوئی ہتھیلی۔
 خضاب لگائی ہوئی عورت۔ جہ. خَضِبٌ۔
 الخَضْبُ - کپڑے دھونے یا رنگنے کا برتن۔ لگن۔
 خَضَخَصَ - خَضَخَصَةً - الماء و نحوه۔ پانی کو بلانا۔
 تَخَضَخَضَ - بلنا۔
 الخَضَاخَصُ - من الاماكن بہت درختوں اور پانی والی جگہ۔
 موٹا۔ بڑے پیٹ والا آدمی۔
 (والخَضَخَصُ) پچھوٹی اور پُردوائی کے درمیان کی ہوا۔
 خَضَدَ (رض) خَضَدًا - العود۔ لکڑی کو بغیر جدا کیے ہوئے توڑنا۔
 موڑنا۔ الشجرۃ - درخت کے کانٹے صاف کرنا۔ الرجل کوئی ترجیز کھانا۔ مثلاً لکڑی کا جڑ وغیرہ۔
 خَضَدَہ - کاٹنا۔
 تَخَضَّدَ و انْخَضَدَ - العود لکڑی کا ٹوٹنا۔ انْخَضَدَت الخمار پھلوں کا پارہ پارہ ہونا۔
 الخَضَدُ - ہر کاٹی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی

لکڑی پھلوں کی پرشورگی۔ نباتات کی کمزوری۔ خَضَدُ البدن کاہلی کے ساتھ بدن کا ٹوٹنا۔ اور درد کرنا۔ خضد السفر سفر کی تکان۔ (و الخَضَاد) اعضاء شقی۔
 الخَضَدُ و المَخَضُود - اٹھنے سے عاجز۔ کمزور۔ کہا جاتا ہے۔ ”رجلٌ مَخَضُودٌ“ دلیل سے عاجز آدمی۔
 الاَخْضَدُ و المُنْتَخَضَد - جھکا ہوا ٹھنڈا۔ ٹوٹا ہوا۔ المَخَضَد بہت کھانے والا۔
 خَضَر (س) خَضَرًا - سبز ہونا۔
 - الورع - کھیتی کا سرسبز شاداب ہونا۔
 خَضَرَدَن، خَضَرًا - النخل کاٹنا۔
 اَخْضَرَ - الرمی النبات - سیرابی کا نباتات کو سبز و شاداب کر دینا۔
 خَضَرَ - الشیء - سبز کرنا۔
 خَاَصَرَهُ - مُخَاَصَرَةً - سبز پھل پکنے سے پہلے بیج دینا۔
 اَخْضَرَ و اخْضُوضَ - سبز ہونا۔
 ہرا ہونا۔ و اخْضَرَ اللیل۔ سیاہ ہونا۔
 اخْضَرَ - الفا کھتہ۔ سبز کچا پھل کھانا۔ العشب سبز گھاس کاٹنا۔ اخْضَرَ۔
 نوجوان مرنا۔
 اَخْضَرَ و اَخْضَرُ - حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے ساتھی کا نام جن کا ذکر سورۃ کہف میں آیا ہے۔
 اَخْضَرَ - سبز۔ ہرا۔ سبز ٹہنی۔ کھیتی

سبز ترکاری۔ بہت سرسبز و شاداب جگہ۔
 الخَضَار - نئی سبزی۔ وہ دودھ جس میں پانی کا بہت حصہ ہو۔
 الخَضِیر - سبز ترکاری۔
 الخَضْرَة - ہرا رنگ۔ سبز ترکاری نرمی و تازگی۔ کہتے ہیں۔ ”غَضْنٌ“ فیہ خَضْرَة۔ وہ ٹہنی جس میں نرمی و پک ہو۔ جہ. خَضَر و خَضَرٌ۔
 الخَضْرَة - وہ سبزہ جو کڑے کرکٹ پر اُگ آتا ہے۔ جس کا ظاہر اچھا ہو اور باطن بُرا۔ اس کے لیے یہ بطور کنایہ استعمال کرتے ہیں۔
 والخَضْرَة - فی الوان الابل و الخیل۔ ٹیلا جس میں سیاہی ملی ہوئی ہو۔۔۔ فی الوان الناس۔ گندم گونی۔
 الخَضَار - سبزی فروش۔
 الخَضَارَة - سبز ترکاریاں۔
 الخَضَارِی و الخَضِیرِی - سبزی مائل زرد رنگ کا ایک پرندہ جس کو ”اخیل“ بھی کہتے ہیں۔ جہ. خَضَارِی۔
 الخَضَرَاء - اخضر کا مؤنث۔
 - القَبَّةُ الخَضَرَاء - آسمان۔
 - و خَضَرَاء القوم - قوم کا بڑا حصہ۔ جہ. خَضَرَاءَات الخضر اذات۔ ترکاریاں میوے۔
 الاَخْضَرَان - گھاس اور درخت۔ کہا جاتا ہے۔ ”ہو یخرف الاخضرین“۔
 الاَخْضَر - سونا۔ گوشت۔ شراب۔
 الاَخْضِر - مکھی۔ آنکھ کی ایک بیماری۔
 المَخْضَرَة - سرسبز جگہ۔
 خَضَرَم - الاذن۔ کان کا کچھ

حصہ کاٹ لینا۔

الخَضْرَم۔ بہت پانی والا کنواں۔

بہت بڑا سمندر۔ کہتے ہیں۔ بحر

خَضْرَم۔ بہت پانی والا سمندر

”رجل خَضْرَم“ بہت داد و

دہش کرنے والا آدمی۔ (د۔

والخَضَارِم) ج۔ خَضْرُمُون

و خَضَارِم و خَضَارِمَة۔

فیاض مصیبتوں کو جھیلنے والا سردار۔

الخَضْرَم۔ میٹھے اور کھاری کے درمیان

کا پانی۔ گدھ کا بچہ۔

الدُّخَضْرَم۔ غیر مختون۔ وہ سیاہ

فام ہیں کا باپ گورا ہو۔ گھٹیا

حسب کا آدمی۔ وہ جس نے

جاہلیت اور اسلام کے زمانے

دیکھے ہوں۔ ناقہٗ مُحَضَّرَمَة۔

وہ اونٹنی جس کے کان کا کنارہ کٹا

ہوا ہو۔ مَاءُ مُحَضَّرَم۔

میٹھے اور کھاری کے درمیان کا پانی۔

خَضَع (ف) خَضُوعًا و خَضَعًا و

خَضَعَانًا۔ عاجزی کرنا۔

تواضع کرنا۔ فروتن ہونا۔ سر فگندہ

ہونا۔ صفت (خَاضِع) ج

خَضَع (و خَضُوع) ج

خَضَع۔ لہ۔ کسی کا تابع و فرماں

بردار ہونا۔ النجمُ ستارہ کا

ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الرجلُ

ساکن کر دینا۔

خَضَع (س) خَضَعًا۔ الرجلُ

جھکا ہوا ہونا۔ صفت (أَخَضَع)

مؤنث۔ خَضَعَاء۔

خَضَعَة۔ عاجز و مطیع کرنا۔

اللحمُ گوشت کا ٹٹا۔

أَخَضَع۔ عاجز ہونا۔ ہ عاجز کرنا۔

کہتے ہیں۔ أَخَضَعْتَنِي إِلَيْكَ

الْحَاجَة ”یعنی حاجت نے مجھ

کو تمھارے سامنے عاجز و فروتن

بنا دیا۔ الْكِبْرُ فلا ٹا۔

بڑھاپے کا کسی کو خمیدہ گردن بنا

دینا۔ جھکا دینا۔

خَاضَع۔ کسی سے نرم گفت گو کرنا۔

تَخَضَع۔ وَاخْضُوعًا۔ عاجز ہونا۔

بناوٹی کا کساری ظاہر کرنا۔

أَخْتَضَع۔ عاجز ہونا۔ المصقُرُ

شکرے کا اپنے شکار پر جھپٹنا۔

— فی سیرۃ۔ تیز چلنا۔

الخَضَم۔ مص۔ گردن کی پیدائشی

پستی۔

الْأَخْضَع۔ ذلت پر راضی۔ دبی ہوئی

گردن والا۔

الخَضَعَة۔ ہر ایک کا مطیع اپنے ہمسر

کو مطیع کرنے والا۔ ج۔ خَضَع۔

الخَضَعَة و الخَضَعَة۔ تلواریں۔

کوڑے۔ تلواروں یا کوڑوں کی آواز

کہتے ہیں۔ ”سمعتُ للسياط

خضعة“ میں نے کوڑوں کے

پڑنے کی آواز سنی۔

الخَضِيعَة۔ آواز جو جانور کے پیٹ

میں سنائی دے۔ سیلاب کی

آواز۔

الخَضِيعَة۔ لڑائی کا شور۔ میدان

جنگ اور اس سے اٹھنے والا غبار

الخَضِيعَة۔ من الرجال۔ ذلت پر

راضی ہونے والا آدمی۔

خَضَف (من) خَضَفًا و خَضَفًا۔

گور کرنا۔ صفت۔ خَضِيف

و خَضُوف و خَضَاف

خَضِل (س) خَضَلًا و أَخْضَل

و أَخْضَل۔ وَاخْضُوعًا۔

تر ہونا۔ نمناک ہونا۔ صفت

رَخِض و خَاضِل) کہا جاتا ہے۔

”عیش خَضِل“ عمدہ اچھی زندگی۔

شَوَاء خَضِل اچھی طرح بھنا

ہوا گوشت۔ سَنَان خَضِل

خون سے تر نیزہ۔

خَصَلَّ وَاخْضَل۔ الشئ۔ تر

کرنا۔ نمناک کرنا۔

اخْضَالَ وَاخْضَاعًا۔ تر ہونا۔

نمناک ہونا۔ الشجورُ

درخت کا بہت ٹہنیوں اور پتوں

والا ہونا۔

الخَضَل و الخَضَل۔ صاف موتی۔

ایک قسم کے مہرے۔ واحد۔

(خَضَلَة)

الخَضَلَة۔ ترقوا زگی۔ آسودگی۔ زندگی

کا آرام۔

الخَضِيعَة۔ سرسبز شاداب اور ہرا

بھرا باغ۔

المُخَضَّل و المَخْضَل۔ آسودہ

زندگی والا۔

خَضَم (من) خَضَمًا وَاخْتَضَمَ

— الشئ۔ کاٹنا۔ کہتے ہیں۔

خَضَمَ لَهُ من مالہ ”اس

نے اس کو اپنے مال میں سے دیا۔

خَضَم (من) خَضَمَ (س) خَضَمًا۔

— الطَّعَام۔ پچھلی وارڑھوں

سے کھانا۔

أَخْضَمَ۔ لہ فی العطاء۔ زیادہ

دینا۔ زیادہ بخشنا۔

الخَضَم۔ بہت بڑا سمندر۔ سردار

بڑا فیاض (عورت کی صفت میں

یہ نہیں آتا) بڑا گروہ۔ تیز کرنے

کی سیل — سیف خَضَم

کاٹنے والی تلوار

الخَضَام و الخَضَامَة۔ وہ چیز جو



انتہائی ڈاڑھوں سے کھائی جائے۔
الْخَصِيمَةُ - سبز نباتات بہت نباتات
والی زمین۔

الْخَصْمَةُ - درمیان چیز کا بڑا حصہ۔
الْمُخَصَّمُ وَالْمُخَصَّمُ - آسودہ
زندگی گزارنے والا۔

حَطَّ (ن) حَطًّا - بالقلم لکھنا۔
الْحِطَّةُ لِنَفْسِهِ - نشان لگا کر
اپنے لیے مخصوص کرنا۔ الشَّيْءُ
قلم وغیرہ سے لکھنا۔ علی

الشَّيْءِ - نشان لگانا۔ علامت
وَالنَّاسُ - الغلام۔ لڑکے
کے چہرے پر سبزہ آنا۔ عذارہ۔

رُخْسَارُہ پر بال نکلنا۔ القبر
قبر کھودنا۔ الْوَيْحُ الْوَيْحُ
ہوا کاریت پر دھاری بنانا۔

فِي الْأَرْضِ - زمین پر لکیر کھینچنا۔
کہا جاتا ہے۔ جادوہ فَا حَطَّ
غبارہ۔ اس نے اس کا مقابلہ

کیا اور اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچا
کتے ہیں۔ فُلَانٌ يَحْطُ فِي الْأَرْضِ
فُلَانٌ اپنے معاملہ میں سوچ بچار

کر رہا ہے۔ حَطَّ الطَّعَامُ وَفِي
الطَّعَامِ - کھانا تھوڑا سا کھانا۔
فِي نَوْمِهِ - نیند میں خراٹے

لینا۔
حَطَّط - لکیریں کھینچنا۔ الْخُطُوطُ
نقش کرنا۔ الْبِلَادُ - ملک
کے حدود مقرر کرنا۔

اُخْتَطَّ - الوجہ اوغیرہ۔ چہرہ
وغیرہ کا دھاری دار ہونا۔
الْغَلَامُ - لڑکے کے رخساروں پر

سبزہ آنا۔ الْأَرْضُ أَوِ الدَّاسُ
اپنا معلوم ہونے کے لیے زمین یا
گھر کی حد بندی کرنا۔ حُطَّةٌ

معین کرنا۔ علامت لگانا۔
الْحَاظُ - فا۔ جادوگر۔

الْحَطَّ - تحریر۔ کتابت۔ لمباراستہ۔
خط الاستواء۔ وہ خیالی اور
مہمومی خط جو زمین کو دو برابر کے

شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم
کردیتا ہے۔ ج۔ حُطُوط۔
وَحُطُوطُ الْكَلَفِ - ہاتھ کی لکیریں۔

الْحُطَّ وَالْحَطَّ - راستہ۔ شاہراہ۔
محلہ۔
الْحُطَّ وَالْحُطَّةُ - آباد کاری کی سب

سے پہلی مقبوضہ زمین۔ زمین کا وہ
ٹکڑا جو کوئی اپنے واسطے مخصوص
کرے۔ ج۔ حُطُوط۔ الْحُطَّةُ

کام۔ کہا جاتا ہے۔ "تِلْكَ
حُطَّةٌ لَيْسَتْ مِنْ بَالِي"
یہ کام میری شان کا نہیں۔

"وَفِي رَأْسِهِ خُطَّةٌ" - اس
کے دماغ میں کوئی خیال ہے۔
خصلت۔ جہالت۔ مشکل معاملہ

جس کا کوئی حل نہ سوچے۔ ج
حُطُوط - کتے ہیں۔ "فُلَانٌ
يَبْتِئُ خُطُوطَ الْمَكَارِمِ" فُلَانٌ

شخص کرم و بزرگی کے مدارج بنیاد
قائم کرتا ہے۔
الْحَظِي - "خط" مقام کا نیزہ۔

خط بحرین کے بندرگاہ پر ایک
مقام ہے۔ جہاں نیزے بہت
بکتے ہیں۔ ج۔ حُطِيَّةُ۔

الْحُطُوطُ - زمین پر پاؤں کا نشان
چھوڑنے والا۔ عورت کے ابرو
رنگنے کا طلا۔

الْحَطَّاطُ - بہت لکھنے والا۔
الْمِخْطَطُ - کپڑے پر نشان کرنے کے
لیے جلاہے کی لکڑی۔

الْمُحَطَّطُ - دھاری دار۔ خوبصورت۔
حَظِيٌّ دَسَ حَطَّاءٌ - غلطی کرنا۔
فِي دِينِهِ - دین میں قصداً یا

بلا قصد غلط راستہ پر چلنا۔
(حَطَّاءٌ وَخَطَّاءَةٌ) گناہ کرنا
قصور کرنا۔ صفت (حَظِيٌّ) ج

حَطَّاءَةٌ - مؤنث۔ حَاطَّةٌ
ج۔ حَوَّاطِيٌّ۔
حَطَّاتٌ (ف) حَطَّاءٌ - الْقَدْرُ

بزدلہا۔ ہانڈی کا جھاگ پھینکنا۔
حَطَّاءٌ - تَخْطِيئَةٌ وَتَخْطِيئَةٌ
غلطی کی طرف نسبت کرنا۔

أَخْطَاءٌ لَأَخْطَاءٍ وَخَاطِئَةٌ - غلطی
کرنا۔ الطریق۔ راستہ
بھٹک جانا۔ الرَّجُلُ كَيْسِي كَو

غلطی میں ڈالنا۔ الدَّامِي الْغَرَضُ
تیر انداز کا نشانہ خطا کرنا۔ تیر نشانہ
پر نہ لگنا۔ فِي عَمَلِهِ - کام میں

راہ صواب سے ہٹ جانا۔
تَحَطَّاءٌ وَتَحَاطَاءٌ - غلطی کرنا۔
تَحَطَّاءَةٌ وَتَحَاطَاءَةٌ - غلطی میں

ڈالنا۔ السَّهْمُ الرَّمِيَّةُ -
تیر کا نشانہ خطا کرنا۔ نشانہ پر نہ
لگنا۔ تَحَطَّاءٌ لَهُ فِي الْمَسْئَلَةِ وَ

بھلا۔ کسی کی غلطی ڈھونڈنے کے
درپے ہونا۔
الْحُطَّاءُ - گناہ۔

الْحُطَّاءُ وَالْحُطَّاءُ وَالْحُطَّاءُ - گناہ۔
بعض کے نزدیک غیر ارادی گناہ
غلطی۔

الْحُطَّاءُ - بہت غلطی کرنے والا۔ بڑا
خطا کار۔
الْحُطِيَّةُ - گناہ۔ بعض کے نزدیک

ارادی گناہ۔ ج۔ حَطَّائِيٌّ وَ
حُطِيَّاتٌ۔

خَطَبٌ (ن) خُطْبَةٌ وَخُطْبًا وَخُطَابَةٌ - وعظ کھنا۔ تقریر کرنا۔ لیکچر دینا۔ حاضرین کے روبرو خطبہ پڑھنا۔ کہتے ہیں: خُطْبَتِ الْقَوْمِ وَفِي الْقَوْمِ اس نے قوم کو خطاب کیا۔ ان کے سامنے تقریر کی۔ خُطْبَتِ دك، خُطَابَةٌ - واعظ وخطیب ہونا مقرر ہونا۔

خَطَبٌ (ن) خُطْبًا وَخُطْبَةً وَخُطَيْبٌ - الفتاة - منگنی کرنا۔ صفت (خاطب) کہا جاتا ہے۔ خطب الفتاة علی فلان اس نے فلاں کے لیے لڑکی کی منگنی کی۔ لڑکی کی نسبت فلاں سے کی۔

خَطِيبٌ (س) خُطْبًا - الشئ - تیرہ مائل سرخ زرد ہونا۔ دھندلا رنگ کا ہونا۔

خَاطِبُهُ - خُطَابًا وَخُطَابَةً وَخُطَابَةً - بام گفتگو کرنا۔ کہتے ہیں۔ "خاطبه في فلان" اس نے اس سے فلاں کے متعلق بات چیت کی۔ اخْطَبَ المصيدُ فُلَانًا - شکار کا زد میں آنا۔ الخِنْطَلُ - گیہوں کا رنگ پکڑنا۔ الخِنْطَلُ - اندرائن کا زد ہونا۔ اور اس پر سبز دھاریاں پڑنا۔

اخْطَبَ - الفتاة - لڑکی کی منگنی کرنا۔ القومُ فُلَانًا - قوم کی کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کسی کو بلانا۔ علی المنبر - منبر پر خطبہ دینا۔

الخُطْب - مص - حالت - کہتے ہیں۔

"مَا خُطِبْتُ" تمہاری کیا حالت ہے اور تم کو اس پر کس نے اکسایا۔ معاملہ۔ خواہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ عام طور پر بڑے ناپسندیدہ معاملہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ ج۔ خُطُوب -

الخُطَاب - گفتگو - فصل الخطاب - فصاحت - خوش بیانی۔ فیصلہ جو قسم یا دلیل کے ساتھ دیا جائے۔ خطیب کا الحمد للہ کے بعد اٹھا بعد "کھنا۔

الخُطْبَةُ - تقریر - وعظ - گفتگو۔ خطبۃ الکتاب - کتاب کا دیباچہ۔ الخُطْبَةُ - تیرہ رنگ جس میں سرخی زردی ملی ہوئی ہو۔ الخُطْب - منگنی کرنے والا مرد۔

عورت جس سے منگنی کی جائے۔ کہا جاتا ہے: هو خطیبها وھی خطبہ۔ ج۔ اخْطَب -

الخُطْبَةُ - مص - وہ عورت جس سے منگنی کی جائے۔ الخُطَاب - منگنی کرنے والا۔ بہت وعظ و تقریر کرنے والا۔

الخُطَابَةُ - بہت تقریر کرنے والا۔ (مذکر و مؤنث) - الخُطَاب -

کا مؤنث۔ الخُطِيب - منگنی کرنے والا۔ خطیب پڑھنے والا۔ کہتے ہیں۔ "رجلٌ خُطِيبٌ" یعنی خوش بیان واعظ۔ ج۔ خُطْبَاء -

الخُطِيب - عورت کو پیغام نکاح دینے والا۔ ج۔ خُطِيبُونَ الخُطِيبِي - وہ عورت جس کو کوئی پیغام نکاح دے۔ منگیتر۔

الخُطْب - شکرا - من

الحنظل - سبز دھاریوں والا اندرائن۔

الأخْطَب - خطابت کا اسم تفضیل ہے۔ جس طرح کتابت سے "اکتب" شعر سے "اشعر" کہتے ہیں: کان اخْطَب اهل زمانه وہ اپنے زمانہ میں سب سے بہتر مقرر و واعظ تھا۔

خَطَرٌ (ن) خُطْرًا وَخُطَيْرًا - فی مشیتہ - چلنے میں ہاتھوں کو

اوپر نیچے کرنا۔ الرحم - نیزہ کا ہلنا۔ بسیفہ اور محہ

تلواریاں نیزہ کو فخر سے بلانا۔ بیدہ - چلنے میں ہاتھوں کو آگے

پہنچے کرنا۔ د - خَطَرًا وَخُطْرًا الجمل بذنبہ

اونٹ کا اپنی دم کو بار بار اٹھا کر اپنی رانوں پر مارنا۔

خَطَرًا (ن) خُطْرًا - الامر لہ - کوئی امر کسی کو سوجھنا۔

خَطَرَتِ الحوادث - حوادث کا واقع ہونا اور پیش آنا۔

خطر - الامر ببالہ وعلی و فی بالہ - کسی کو کوئی بات بھولنے کے بعد یاد آ جانا۔

خَطَرٌ دك، خُطْرًا - وخطورة - بلند مقام۔ ذمی قدر ہونا۔ صفت (خُطَيْر) ج۔ خُطَر -

خَاطَر - خُطَاوَةٌ - بنفسہ - اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا۔ جان جو کھوں

میں ڈالنا۔ ہ علی كذا - شرط لگانا۔

أَخْطَرَ الشئ - فی او علی او ببالہ یاد دلانا۔ ہ - قدر و مرتبہ میں

کسی کے مثل ہونا۔ المال - مال



کو شرط پر رکھنا — المریض
بیمار کا خطرہ میں ہونا۔ صفت۔

(مخطر)

تَخَطَّرِي۔ چاندنا۔ تجاوز کرنا۔ کہتے
ہیں: "تخطرا فی شَرْ فُلَانٍ"
فُلَان کا شرمجہ سے تجاوز کر گیا۔
تَخَاطَر۔ القوم علی الشئ۔ شرط
باندھنا۔

الخطر۔ ایک بڑا پیمانہ (والخطر)
اونٹ کے سرینوں پر بیٹگنیوں کا
جھا ہوا میل۔ بادل جو نظر کے
سامنے آئے۔

الخطر۔ بہت پانی ملا ہوا دودھ۔
بہت سے اونٹ بشارخ بختاب
کا ایک پودا۔ جر۔ آخطاس۔
الخطر۔ قریب ہلاکت۔ جر
آخطار۔ کہتے ہیں: "دکبوا

الآخطار" وہ خطروں میں پڑے
خرافت۔ بلندی۔ رتبہ۔ مغل۔ ہم
پلہ۔ اس کا استعمال ذی مرتبہ چیز
ہی میں ہوتا ہے جیسے "فی ظل
عیشی خطیر مالہ خطر۔"
شرط جو گھوڑ دوڑ میں لگائی جاتی
ہے۔ جر۔ خطار وجہ خطر۔

الخطرة۔ ایک مرتبہ۔ ایک بار۔
کہتے ہیں: "مالقیمتہ الآخرة"
میں اس سے صرف ایک بار
لا۔

الخاطر۔ فا۔ دل میں کھٹکنے والا امر
یا تدبیر۔ خیال۔ کبھی دل اور نفس
پر بھی اس کا مجازاً اطلاق ہوتا
ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: "وَقَعَ
فی خاطری" میرے دل میں آیا
"وفلان سریع الخاطر" فلان
تیز طبیعت ہے۔ "وجاش الشعر

فی خاطری" میرے دل میں شعر
کی آمد ہوئی۔ جر۔ خَوَاطِر۔
الخطار۔ الخاطر کا اسم مبالغہ۔
— عَطَّار۔ نیزہ مارنے والا۔
نیزہ۔ گوچین۔ زیتون کا خوشبودار
تیل۔ شیر۔
الخطارة۔ اونٹوں کا باڑہ۔
الخطیر۔ عالی مرتبہ۔ بلند مرتبہ۔ اتر کر
چلنے والا۔

الخطیر۔ بلند درجہ۔ شریف۔ ہمار
رسی۔ ترمسے۔ رات کی اندھیری
دھمکی یا ڈانٹ۔ شادمانی۔ ذی
قدر چیز کا مثل۔ کہتے ہیں۔
"لیس لہ خطیر" اس کا
کوئی مثل نہیں
المخاطر۔ خطرے۔ اس کا مفرد
نہیں ہے۔

خَطُوفٌ وَتَخَطُوفٌ۔ چلنے میں
تیزی کرنا۔ صفت (خطیر)
وخطُوفٌ، — خطوفہ
بالسيف۔ تلوار سے مارنا۔

خَطِيفٌ دس، خَطِيفًا — الشئ
اچک لینا۔ البرق البصر۔
بجلی کا آنکھ کو چندھیانا یا اندھا کر
دینا۔ السمع۔ چوڑھے سننا۔

خَطِيفٌ دس، وَخَطِيفٌ دس، خَطِيفًا
جلدی چلنا۔ تیز چلنا۔ صفت۔
(خطیف و خیطف)

خَطِيفٌ۔ خَطِيفٌ کا مبالغہ۔ بہت
جلدی چھین لینا۔

أَخْطَفَهُ۔ خطا کرنا — المریض
بیماری کا زور گھٹ جانا یا بالکل
چلا جانا — الرجل آدمی
کا کچھ بیمار ہونا۔ اور جلد چھا
ہو جانا۔

تَخَطَّفَ وَآخْطَفَ — الشئ
چھین لینا۔ کھینچنا۔ نکال لینا۔

الخطف والخطف۔ لاغری۔ اور
پلوؤں کا دبل پین۔

الخطفة۔ جھپٹا۔ عضو۔ جس کو
درندہ جھپٹا مار کر جسم سے اتار لے
جائے۔ یا انسان کسی زندہ جانور
سے کاٹ لے۔

الخاطر۔ فا۔ زمین پر لگ کر نشانہ
پر لگنے والا تیر۔ جر۔ خَوَاطِف
أَخْطَفَ۔ الحنفی۔ دُبل۔ لاغر۔
الخاطوف۔ درانتی کی طرح کا ایک
اوزار جس کو جال میں باندھ کر بہن
وغیرہ کو پکڑتے ہیں۔

الخطاف۔ الخاطر۔ کا اسم مبالغہ
پور۔ شیطان۔ ایک لمبے بازوؤں
والا۔ چھوٹے پاؤں والا سیاہ
رنگ کا پرندہ۔

الخطاف۔ آنکس کی طرح ایک قسم کا
ٹیرھا لوبا۔ جس سے چیزیں اچک
لے جائیں۔ جر۔ خطا طیف
خطا طیف السباۃ۔ درندوں
کے چنگل۔

الخطفی والخیطفی۔ تیز رفتاری۔
کہتے ہیں۔ "ہویشی الخطفی"
وہ تیز چال چلتا ہے۔

خَطْلٌ دس، خَطْلًا وَآخْطَلْ۔
— فی کلامہ۔ بہت بیہودہ

گفتگو کرنا — فی منطقہ
ادبایہ۔ غلطی کرنا۔ جیسے

"اصالة الراي صانتی
من الخطل۔ رائے کی اصالت نے
مجھ کو خطا سے بچا لیا۔

تَخَطَّلَ۔ فی المشی۔ ہلتے ہوئے
تکبرانہ چال چلنا۔

خ



الخاطِل - باطل۔
 الخُطْل - مص - بے وقوفی۔ سبکی۔
 سرعت - نہایت رومی لغو گفتگو۔
 کہا جاتا ہے: "اری فی مشیتہ
 خَطْلًا" میں اس کی چال میں
 کمزوری پاتا ہوں۔ پریشان گفتگو۔
 الخُطْل - بیہودہ گفتگو والا۔ احمق۔
 سہم خُطْل - نشانہ کو خطا
 کرنے والا تیر۔ ثوب
 خُطْل - موٹا کھردرا پٹا جو ملازی
 کے باعث زمین پر گھسے۔ ج
 اَخْطال - کہا جاتا ہے: "رجلٌ
 خُطِلَ البیدین" کھردرے
 ہاتھوں والا آدمی۔ "ورمہ"
 خُطْل - بے ڈول لمبا نیزہ۔
 الخُطْل - تیزی سے نیزہ مارنے والا
 جیسے: "احوس فی الہیجاء
 بالرمح خُطْل" بہادر و دلیر
 لڑائی میں تیزی سے نیزہ مارنے
 والا ہوتا ہے۔ خُطْل
 بالمعروف - بخشش دینے
 میں جلدی کرنے والا۔
 الاَخْطَل - لمبے اور ڈھیلے کانوں والا۔
 بے ہودہ گفتگو کرنے والا۔
 مؤنث - خُطْلَاء - ج - خُطْل۔
 الخُيْطَل - کتا - بلی - مصیبت - عطر
 فروش - بڑی دل۔
 خُطْمَہ (من) خُطْمًا و خُطْمَہ -
 - بالخِطَام - نکیل ڈالنا -
 خطبہ بالکلام - کسی کو گفتگو
 میں خاموش کر دینا - مغلوب
 کرنا - خطم الرجل -
 ناک پر مارنا - د - خُطِيمًا -
 و خُطَامًا - القوس بالوتر
 کمان پر تانت پڑھانا۔

اِخْتَطَمَ - الخِطَام - نکیل ڈالنا۔
 المَخْطَم - و المَخْطَم - ناک۔
 الخِطَم - مص - ناک کا اگلا حصہ
 چوپنج - من الدابة
 چوپایہ کی ناک اور منہ کے سامنے
 کا حصہ۔
 الخِطَام - مہار - نکیل - کمان کی
 تانت - ج - خُطْم -
 الخاطِم - فا - کہا جاتا ہے: "فلان
 خاطم امر بنی فلان"
 یعنی فلاں بنو فلاں کا راہبر پیشوا
 اور ان کے معاملات کا منتظم ہے۔
 الخِطَام - اسم مبالغہ - "مسك
 خُطَام" وہ مشک، جو اپنی
 خوشبو سے ناک کو بھروے۔
 الاَخْطَم - لمبی ناک والا - سیاہ۔
 مؤنث - خُطْمَاء - ج - خُطْم۔
 الخُطِيَّة - ایک بوٹی جو دوائی کے
 طور پر کام آتی ہے۔ واحد -
 (خُطِيَّة)
 خَطَادَن (من) خُطَوًا - قدموں کے درمیان
 کشادہ کر کے چلنا۔
 خَطًا وَاخْطَى - الرجل - قدموں کو
 کشادہ کر کے چلنا۔
 خُطَى - عنده الشئ - کسی سے کچھ
 دور کیا جانا۔
 تَخَطَّى - تَخَطَّى وَاخْطَى - اختطأ
 - ہا الی کذا - آگے گذر
 جانا - سبقت کرنا۔
 الخُطْوَة - چلنے کے وقت دو قدموں
 کے درمیان کا فاصلہ - عوام اس
 کو اپنی اصطلاح میں فُشْخَة
 بولتے ہیں - مسافت - کہا جاتا ہے
 "قَرَّبَ اللہ علیک الخُطْوَة"
 اللہ تعالیٰ مسافت کو تمہارے

لیے قریب کر دے۔ ج - خُطَى
 و خُطَوَات و خُطَوَات و
 خُطَوَات -
 الخُطْوَة - بمعنی خُطْوَة - خطا کا
 اسم مرہ - - فی المساحة
 چھ قدم - ج - خُطَوَات و خطا -
 الخُطِيَّة - خطا - گناہ۔
 خُطَا - يَخْطُو - خُطَوًا - لحمہ -
 گوشت کا گٹھا اور سخت ہونا۔
 اَخْطَى - الرجل - موٹا ہونا -
 اَخْطَاہ - موٹا کرنا۔
 الخُطَى - گٹھے بدن والا۔ کہتے ہیں -
 "امرأة خُطِيَّة بَطِيَّة" -
 گٹھیلے بدن کی عورت۔
 الخَيْعَل - بیڑیا - چھلاوہ - بغیر
 آستینوں کا قمیص - کہا جاتا ہے -
 "خَيْعَل" اس نے اس کو بغیر
 آستینوں والی قمیص پہنائی -
 تَخَيَّعَل - اس نے بغیر آستینوں کے
 قمیص پہنی۔
 خَفَّت (من) خَفًّا و خَفَّةً و
 خَفَّةً - ہلکا ہونا - کم عقل ہونا۔
 کم مال والا ہونا - المطر
 بارش کا کم ہونا۔ د - خَفَّاد
 خَفَّةً و خَفُوفًا - الی العدا
 تیزی کرنا - جلدی کرنا - القوم
 جلدی کو چ کر کے کم ہونا۔
 خَفَّت - الشئ - ہلکا کرنا -
 الحرف - حرف کو تشدید نہ
 دینا - الثوب - کپڑے کو
 باریک بنانا۔
 اَخَفَّت - تھوڑے اسباب والا ہونا۔
 رقیق الحال ہونا - جمالت پر
 آسانا - عیب لگانا - بدگوئی کرنا۔
 تَخَفَّت - چڑے کا موزہ پہننا - جلدی

کرنا۔

تَخَفَّتْ۔ ہلکا پھلکا ہونا۔

استَخَفَّه۔ ہلکا جاننا۔ جاہل

سمجھنا۔ حق و راستی سے ہٹا

دینا۔ ۵ الغناء۔ گانے کا

کسی کو طرب نشاط میں لانا۔

استَخَفَّ به۔ حقیر جاننا۔

الخِفِّ۔ ہلکا۔ مقوڑی جماعت۔

کہتے ہیں: "خرج في خفت من

اصحابه" وہ اپنے مقوڑے

سے ساتھیوں کے ساتھ نکلا۔

الخُفِّ۔ للبعير والنعام۔ اونٹ

اور شتر مرغ کی ٹاپ۔ موزہ

چرمی۔ جر۔ أَخْفَافٌ وَخِفَافٌ

کہتے ہیں: "خَفَّ ضَاحِكٌ" پھٹا

ہوا موزہ۔ جس میں قدم کا کچھ حصہ

چمکتا ہو۔ الخُفِّ۔ قدم کا وہ

حصہ جو زمین سے لگے۔ سخت

زمین۔

الخِفَّةُ۔ مص۔ جسم یا عقل یا عمل کا

ہلکا پن۔

الخَفِيفُ۔ ہلکا۔ پھرتیلا کہتے ہیں۔

"وهو خفيف الروح" وہ مہربان

اور اچھی صحبت والا ہے۔

خفيف القلب۔ ذکی۔ خفيف

العقل۔ يوقوف۔ خفيف الظهر

کم اولاد والا۔ "خفيف اليد"

پھرتیلا۔ "خفيف العارضين"

مقوڑی ڈاڑھی والا۔ جر أَخْفَادٌ

خِفَافٌ وَ أَخْفَافٌ —

الخفيف۔ علم عروض کی اصطلاح

میں ایک بحر کا نام ہے۔

الخُفَافُ۔ ذکی۔ تیز فہم۔

الخُفَافُ۔ چرمی موزے بنانے والا۔

یا نیچنے والا۔

الخَفَوُفُ۔ بچو۔

خَفَّارٌ، خَفَّاءُ۔ الشَّيْءُ۔ اکھیر کر

زمین پر پھلکانا۔ البیت گھر

کو ڈھانا اور گرانا۔ القربة

مشک کو بھاڑنا۔

خَفَّتْ دَن، خَفَوْتُا۔ الصوت

آواز کا پست ہونا۔ صفت

(خَافٌ وَخَفِيتُ)، (د۔ خَفَاتَا)

اچانک موت سے مراد۔ وَخَفْنَا

وَخَافَتْ وَتَخَافُ، بکلامہ

و صوتہ۔ پوشیدہ رکھنا۔ پست

کرنا۔ آہستہ کرنا۔ بالقرآن

پست آواز سے پڑھنا۔

خَافَتِہ۔ پست آواز سے

گفتگو کرنا۔ تَخَافُت۔

بتکلف ضعف و سکون کا اظہار

کرنا۔

الخُفَّتُ۔ ایک قسم کی نبات۔

الخَفَّتَانُ۔ چلتے۔ ایک قسم کا لباس جو

جنگ میں پہنا جاتا ہے (دخیل)

الخَافِتُ۔ پانی سے خالی بادل۔

"زرع خافت" کمزور پودا جو

اوپر نہ ہوا ہو۔

خَفِجَ دَس، خَفَجًا۔ البعيرُ۔

اونٹ کا خفج کی بیماری میں مبتلا ہونا

الخَفِجُ۔ کمزور۔ سُست۔

الْأَخْفَجُ۔ خفج کی بیماری والا۔

طُر سے پاؤں والا۔ عمود

أَخْفَجَ۔ طُر ہاستون۔

الخَفَجُ۔ گھٹنے کا پٹنے کی بیماری۔

خَفَّتْ۔ خَفَفَتِہ۔ الخنزيرُ

او الضبعُ۔ آواز کرنا۔

الرجلُ قيصہ الجدیدا

القرطاس۔ نئے قیص یا کاغذ

کو حرکت دینے سے اس کی

کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دینا۔

الخَفَخَاتُ۔ وہ شخص جس کی آواز

ناک سے نکلتی ہوئی معلوم ہو

خَفَدَ دَن، خَفَدًا وَخَفَدَانًا۔ د

خَفَدَ دَس، خَفَدًا۔ تیز چلنا۔

الخَفْدُ وَالخَفْدُودُ۔ چمکادڑ کے

مانند ایک پرندہ۔

خَفَرَدَن ض، خَفَرًا وَخَفَرًا۔

۵۔ دہ و علیہ۔ پناہ دینا

حفاظت کرنا۔ امن دینا۔ ۵

حفاظت کرنے کے عوض میں اجرت

لینا۔ خُفْرًا بِالْعَهْدِ۔ عہد

پورا کرنا۔ ایفائے عہد کرنا۔

(د۔ خَفَرًا وَخَفَوْرًا) فلاں گا۔ کسی

کے عہد کو توڑ دینا۔ کسی سے

بے وفائی کرنا۔

خَفِرَتْ دَس، خَفَرًا وَخَفَارَةً۔

الجاریۃ۔ عورت کا بہت

شرم کرنا۔ صفت (د۔ خَفِرَ وَ

خَفِیۃً وَخَفَارَہ)۔

خَفَرَہ۔ کسی کو امن دینا۔ کسی کی

حفاظت کرنا۔ شہر کے گرد دیوار

بنانا۔

أَخْفَرَہ۔ کسی کے عہد کو توڑ دینا۔

کسی کے ساتھ بے وفائی کرنا۔ کسی

کے ساتھ محافظہ روانہ کرنا۔

تَخَفَّرَ بہ۔ پناہ دینا۔ پناہ لینا۔ محافظ

ہونے کی درخواست کرنا۔

تَخَفَّرَتْ۔ الجاریۃ۔ عورت کا بہت

شرمیل ہونا۔

الْخَفَارَةُ۔ بتثلیث الخاء۔ عہد۔

الْخَفَارَةُ۔ چوکیدار کی تنخواہ۔

الخُفَرَةُ۔ خفارۃ کے معنی میں ہے۔

کہتے ہیں: "هو في خفرة الله"

وہ اللہ کے ذمہ میں ہے" ھذا

خ

خفقی۔ وہ میرا رہبر و محافظ ہے۔
الخَفِيز۔ پناہ دیا ہوا۔ پناہ دہندہ
حمایت و حفاظت کرنے والا۔
جر۔ خَفَرَاء۔

الخُفْرَة۔ پناہ دہندہ۔
خَفْسَه (ن)، خَفْسًا۔ ٹھٹھا کرنا۔
ہنسی کرنا۔ خفس الطعام
ادالہ شراب۔ بخور اٹھانا یا پینا۔
الْبِنَاء۔ عمارت منہدم کرنا۔
خَفَسَ (ض)، خَفَسًا وَآخَفَسَ۔
بہت بدزبانی کرنا۔

انْخَفَسَ۔ المَاء۔ پانی کا متغیر ہونا۔
تَخَفَسَ۔ الرجل۔ لیٹنا۔
شراب (مُخَفَس) جلد مست
کرنے والی شراب۔

خَفَشَ (ن)، خَفَشًا۔ بد۔
پھینکنا۔ الْبِنَاء۔ عمارت
ڈھانا۔

خَفَشَ (س)، خَفَشًا۔ کمزور ہونا۔
پیدائشی کمزور نظر والا ہونا۔ تنگ
آنکھ والا ہونا۔ رتوندہ کی بیماری
والا ہونا۔ صفت (خَفِش)
وَآخَفَشَ)

خَفَشَ۔ الْبَدَن۔ بدن کا کمزور
ہونا۔ الْبِنَاء۔ عمارت ڈھانا
۔ الرجل۔ کسی کو پچھاڑ کر
کھلنا۔ بِالْأَرْضِ۔ زمین سے
چھٹنا۔

الْخَفَاش۔ چمگادڑ۔ جر۔ خَفَافِيش۔
خَفَصَه (س)، خَفَصًا۔ پست
کرنا۔ الصوت۔ آواز کو
آہستہ کرنا۔ نرم کرنا۔ الْكَلِمَة
کلمہ کو زیر دینا۔ خَفَصَ
الصوت۔ آواز کا آہستہ ہونا
۔ بِالْمَكَانِ۔ کسی جگہ اقامت

کرنا۔ الرجل۔ مرنا۔
الْأَبْل۔ اونٹ کا آہستہ نرم
رفتار سے چلنا۔
خَفَضَ (ن)، خَفَضًا۔ الْعَيْش۔
زندگی میں آسودگی، خوش حالی
نصیب ہونا۔ صفت (خَفِض)
وَخَفَضَ وَخَافِضٌ۔ و
مُخَفُوضٌ۔ خَفَضَ۔ الشَّيْءَ۔
آسان کرنا۔ نرم کرنا۔ اسی سے
ہے "خَفِضَ عَنْكَ" اپنے اوپر
نرمی کرو۔

تَخَفَضَ۔ الْاُمُ۔ آسان ہونا
انْخَفَضَ۔ ترقی کے بعد منزل میں
آنا۔ بلندی کے بعد پست ہونا۔
الصوت۔ آواز کا پست ہونا۔
اخْتَفَضَ۔ السَّعْو۔ بھاؤ کا گرنا۔
الْخَافِضُ۔ فَا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم
مبارک۔ کہتے ہیں "ہو خافض
الطیر و خافض الجناح" یعنی
وہ صاحب وقار اور متحمل المزاج
ہے۔

الخَفِضُ۔ مَص۔ د۔ وَالْخَفِيزَةُ
زندگی میں آسودگی و فراخی۔ کہتے
ہیں "ہو فی خَفِضٍ مِنَ الْعَيْشِ"
وہ آسودہ زندگی میں ہے۔

خَفَعَهُ (ن)، خَفَعًا۔ بھوک وغیرہ
کے سبب چکر کھا کر گر جانا۔
خَفَعَهُ بِالسَّيْفِ۔ تلوار سے
مارنا۔ خَفَعًا وَخَفَعَانًا۔
الستور۔ پردہ کا ہلنا۔

أَخَفَعَهُ۔ الْجَوْع۔ بھوک کا کسی
کو چکرا کر گرا دینا۔
انْخَفَعَ بے ہوشی کے قریب ہونا۔
خَفَقَهُ (ن ض)، خَفَقًا۔
بالسيف۔ تلوار سے آہستہ

مضب لگانا۔ النعل۔ جوتے
کا چڑانا۔ د۔ خَفَقًا وَخَفُوقًا
خَفَقَانًا۔ الْفَوَادُ۔ دل کا
دھڑکنا۔ الرَّايَةُ۔ جھنڈے
کا ہلنا۔ الْبوق۔ بجلی کا
کوننا۔ د۔ خَفُوقًا، النجم
ستارہ کا غروب ہونا۔ اللیل
رات کا اکثر حصہ گزر جانا۔
الطائر۔ پرندہ کا اڑنا۔
الرجل فی البلاد۔ ملک میں
سفر کرنا۔ الْمَكَانُ۔ جگہ کا
خالی ہونا۔

أَخَفَقَ۔ مضطرب ہونا۔ حاجت
طلب کرنا لیکن ناکام رہنا۔ محروم
ہونا۔ الْقَوْمُ۔ قوم کے توشہ
کا ختم ہونا۔ بد اسدہ۔ اونگھ
سے بھونکنے کا۔ بشوبہ۔
کپڑے کو حرکت دے کر اشارہ کرنا
۔ النجم۔ ستارہ کا ڈوبنا۔
الطائر۔ پرندہ کا بازو پھٹ
بھٹانا۔ پچھاڑنا۔

اِخْتَفَقَ۔ الْعَلَمُ۔ السراب۔
جھنڈے یا سراب کا ہلنا۔
الْخَفَقَةُ۔ خَفَقَ کا اسم مرہ۔
الْخَفَقَةُ۔ جس چیز سے مارا جائے مثلاً
تسمہ وغیرہ۔

الخَفِقُ وَالْخَفِيقَةُ وَالْخَفَقُ وَ
الْخَفَقَةُ۔ پتلی کر کا گھوڑا۔
خَفِيقَةٌ اور خَفِيقَةٌ۔ میں تا تاثر
کی نہیں بلکہ مبالغہ کی ہے۔ جر
خَفَاقٌ وَخَفِيقَاتٌ وَخَفَقَاتٌ۔
الْخَافِقُ۔ فَا۔ "مکان خافق"
انیس سے خالی مکان۔ رجل
خافق العين۔ دھنسی ہوئی
آنکھ والا۔



الْخَفَاقُ - اسم مبالغہ — خَفَاقُ
الْقَدَمِ - وہ شخص جس کے قدم
کا اگلا حصہ چوڑا ہو بہت حرکت
کرنے والا۔

الْخَافِقَانِ - مشرق و مغرب۔
الْخَوَافِقُ - والخَافِقَاتُ - خافقہ
کی جمع۔ جھنڈے —

خَوَافِقُ السَّمَاءِ - ہوا چلنے کی پاروں
سمتیں۔

الْخَفِيقُ - مصیبت۔ بہت تیز رو
گھوڑا یا اونٹنی۔ وہ چوڑا وسیع
بیابان جس میں سراب چمکتا ہوا
دکھائی دے۔

الْمَخْفِقُ - سراب والا ریگستان۔
المخفق۔ چوڑی تلوار۔
الْمُخَفِّقَةُ - مارنے کا کوڑا۔ بقول
بعض لکڑی کا کوڑا۔

مخافق - النجوم - ستاروں
کے ڈوبنے کی جگہیں۔
المخفوق - مفع۔ مجنون۔

الخفن - پیٹ کا ڈھیلا پن۔
الخِيفَان - ٹڈی۔ واحد (خِيفَانَةٌ)
الخِفَان - ایک نرم پتھر۔ یہ لفظ عوام

استعمال کرتے ہیں۔ اس کے
یہ فیصیح عربی "الْوُخْفَةُ" ہے
خَفَادَن، خَفَوَا وَخَفُوا —
الْبَرَقَ - بجلی کا چمکتا — الشئ۔

ظاہر ہونا۔
خَفِيَ (ض) خَفِيًّا وَخُفِيًّا —
الشئ۔ ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے
"خفی المطر الفار" بارش
نے چوہے کو بل سے نکال دیا۔

چھپانا۔ پوشیدہ کرنا (ض)
خَفِيَ (س) خَفَاءً وَخُفِيَّةً
وَخُفِيَّةً - پوشیدہ ہونا۔

غائب ہونا۔ صفت (خَافٍ
وَخَفِي) ،

خَفِيَ وَخَفِيَ — الشئ۔ چھپانا
پوشیدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے۔
"أَخْفَتِ عَنَّا" یعنی جو ہمارے
بارے میں دریافت کرے، اس
سے ہماری خبر مخفی رکھو —

وَخَفِيَ الرَّجُلُ - چھپنا۔ پوشیدہ
ہونا — أَخْفَى الشئ - سرپوش
ہٹانا۔

تَخَفَى وَاسْتَخَفَى - چھپنا۔ پوشیدہ
ہونا۔

أَخْفَى — الشئ۔ ظاہر کرنا۔
نکالنا — مِنْ فَلَانٍ - چھپنا۔

— الْبُئْرُ - کنواں کھودنا۔
المخفاء - مص۔ پوشیدگی۔ کہتے

ہیں "برح الخفاء" معاملہ
ظاہر ہو گیا۔ پردہ۔ چادر۔ جو
لباس کو چھپائے پوشیدہ چیز۔

ج۔ أَخْفِيَّةً -
أَخْفِيَّةُ الْكُرَى - انکھیں۔ اخفیه
الزهره - کلی کے غلاف۔

الخَافِي وَالْخَافِيَاءُ - جن۔
الخَفِي - لوگوں سے کنوارہ کش ہونے
والا۔ مخفی جگہ رہنے والا۔ کہا

جاتا ہے "رجل خفی البطن"
پچکے ہوئے پیٹ والا۔
الْخَافِيَّةُ - الخَافِي کا مؤنث

پوشیدہ چیز۔ پوشیدگی۔ جن۔
ج۔ خَوَافٍ - کہتے ہیں "ارض
خَافِيَّةٌ" جنوں والی زمین۔

الخَوَافِي - پرندے کے بازوؤں میں
میں چھپے ہوئے پر۔ ضرب المثل ہے
"ليس القوادم كالخوافي"
سیخ کے پر چھوٹے پروں کے

مانند نہیں۔
الْخَفِيَّةُ - الخَفِي کا مؤنث۔ گنجان۔

جھاڑی۔ پانی والا کنواں۔ ج
خَفَايَا - خَفِيَّات - کہا جاتا ہے
"بہ خفیه" اس پر کچھ
دیوانگی کا اثر ہے۔

الْمُخْتَفِي - فا - کفن چور۔
خَفَّتْ (ض) خَفًّا وَخَفَقًا - و
خَفِيقًا - الْقَدْرُ - ہانڈی کا
جوش کھانا اور سنسناتا —

"حَقَّ السَّيْلُ فِي الْأَرْضِ"
سیلاب کا زمین میں گہرا گڑھا کر
دینا۔ وَأَخْفَتِ الْبَكْرَةُ
پرخی کے سوراخ کا فراخ ہونا۔

الْخَفَقُ - ج۔ أَخْفَاقٌ وَخَفُوقٌ
وَالْأُخْفُوقُ وَالْأُخْفِيقُ -

زمین کا شکاف۔ خشک تالاب۔
خَافَان - ترکوں کے بادشاہوں کا
لقب۔ کہتے ہیں "خَفَنَہُ

الْقَوْمُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ" لوگوں نے
اس کو اپنا بادشاہ بنالیا۔

خَلَّ (ن ض) خَلًّا وَخُلُولًا -
لحمہ۔ دبلا ہونا۔ گوشت کا

کم ہونا۔ دن، خَلًّا - الشئ
سوراخ کرنا۔ الْفَصِيلُ - زبان

کو چیر کر دودھ سے روکنے کے
لیے لکڑی ڈالنا۔ فی دعائہ۔

اپنی دعا میں مخصوص کرنا۔
خَلَّ - الیہ - محتاج ہونا۔

خَلَّلَ - الْعَصِيْرُ - ترش ہونا۔
سرکہ بننا — الْعَصِيْرُ

سرکہ بنانا —
خلال کرنا — خلل فی دعائہ

اپنی دعا میں مخصوص کرنا۔
خَالَهُ مُخَالَةً - وَخَلَّاهُ وَخَلَّاهُ -

والخَلَائِکَ، دانتوں کا خلال۔
 الخَلَالُ والخَلَائِکَ۔ دانتوں میں
 پھنسے ہوئے خوراک کے ریزے۔
 خَلَالُ الدِّیَارِ۔ ملک کا ارد
 گرد۔ گمروں کے درمیان۔
 کہتے ہیں: هُوَ خَلَائِکَ۔ وہ
 ان کے درمیان ہے۔
 الخَلَائِکَ والخَلَائِکَ والخَلَائِکَ
 سچی دوستی۔
 الخَلِیلُ۔ خالص دوست۔ ج۔
 أَخِلًا وَخُلَانًا۔ لا غر بن
 والا۔ فقیر۔ مؤنث۔ خَلِیلَکَ
 ج۔ خَلِیلَاتٍ وَخَلَائِلُ۔
 — شئی خَلِیلٌ۔ چمدی
 ہوئی چیز۔
 الخَلَالُ۔ سرکہ فروش۔ سرکہ بنانے
 والا۔
 الْأَخِلُّ۔ محتاج۔ دوسرے سے زیادہ
 محتاج۔ — رَجُلٌ مُخِلٌ۔
 فقیر محتاج آدمی۔
 خَلَاءٌ۔ خُلُوءٌ ۱۔ اپنی جگہ سے
 نہ اٹلنا۔
 خَالَاءٌ۔ مُخَالَءَةٌ۔ القوم۔
 ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز
 میں لگنا۔
 خَلَبَهُ دَنٌ (ض)، خَلَبًا۔ بنظر۔
 ناخن سے خراش لگانا۔ زخمی کرنا۔
 — السَّبْعُ الْفَرِیْسَةُ۔
 درندہ کا اپنے شکار کو چنگل سے
 پکڑنا۔ — الْفَتَى۔ جوان کے دل
 کو موہ لینا۔ فتنہ میں مبتلا کرنا۔
 خَلَبَهُ دَنٌ، خَلَبًا وَخَلَائًا وَ
 خَلَائَةً وَخَالَیَهُ مُخَالَیَةً
 وَخَلَبَهُ وَاخْتَلَبَهُ۔ نرم
 کلامی سے کسی کو فریفتہ کرنا صفت

کہتے ہیں: مَالَهُ خَلٌّ وَلَا خَمٌّ
 یعنی اس کے پاس نہ اچھی چیز ہے
 نہ بُری۔ نہ نیکی ہے نہ بُرائی۔
 وَلَسْتُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فِي
 خَلٍّ وَلَا خَمَرٍ۔ مجھ کو اس
 معاملہ کے نہ خیر سے مطلب ہے
 نہ شر سے کام۔ — أَمَدُ الْخَلِّ
 شراب۔
 الْخَلِّ وَالْخَلِّ۔ گمراہ دوست۔ مؤنث
 خَلٌّ وَخَلَّةٌ۔ ج۔ اخلال۔
 الْخَلْلُ۔ سُستی۔ فساد۔ رائے میں
 پرگندگی اور انتشار۔ شکاف۔ درد
 ج۔ خِلَالٌ۔
 الْخِلْلُ۔ دانتوں میں کھانے کے
 بقیہ ریزے۔ واحد (خَلَّةٌ)
 کہتے ہیں: هُوَ خِلْلُ الْقَوْمِ
 وہ قوم کے درمیان ہے۔
 الْخَلَّةُ۔ عادت۔ سوراخ۔ تھوڑا۔
 سرکہ۔ تھوڑی کھٹی شراب۔ حِثَّ
 مفلسی۔ ج۔ خِلَالٌ وَخِلْلٌ۔
 الْخَلَّةُ۔ بلی بھکی عورت۔
 الْخَلَّةُ۔ وہ گھاس جس میں حلاوت
 و مٹھاس ہو۔ ج۔ خِلْلٌ۔ دوستی
 عادت۔ بیوی۔ سہیلی۔ دوست۔
 (واحد تشبیہ، جمع، مذکر، مؤنث
 سب کے لیے) کہہ سکتے ہیں۔
 هُوَ وَهِيَ خَلَّتِي۔
 الْخَلَّةُ۔ دوستی۔ بھائی بندی۔
 چمڑے سے منڈھا ہوا تلوار کا
 میان۔ ہر نقش دار چمڑا۔ ج۔
 خِلْلٌ وَخِلَالٌ۔
 الْخِلَالُ۔ سوراخ کرنے کا آلہ۔ وہ
 لکڑی جو اونٹ کے بچہ کی زبان
 میں لگائی جاتی ہے کہ وہ دودھ
 نہ پی سکے۔ ج۔ أَخِلَّةٌ۔ د۔

دوستی کرنا۔ بھائی بندی کرنا۔
 أَخِلٌّ۔ محتاج ہونا۔ — بِالْشَيْءِ۔
 کوتاہی کرنا۔ چھوڑنا۔
 الْوَالِیُّ بِالْمَغُوسِ۔ حاکم کا
 سرمدات پر لشکر کم کر دینا۔
 بِمَرْكَزَةٍ۔ چھوڑ دینا۔
 بِقَوْمِهِ۔ قوم سے غائب ہو جانا۔
 — بِالرَّجُلِ۔ پورا حق نہ دینا۔
 — بِالْأَمْرِ۔ کسی امر کو بُرے
 طریقے سے انجام دینا۔ أَخَلَّه
 اللَّهُ۔ خدا نے اس کو مفلس و
 محتاج کر دیا۔ أَخِلَّ بِالرَّجُلِ
 محتاج ہونا۔
 تَخَلَّلَ — الْقَوْمَ۔ قوم میں مل
 جانا۔ — بِالرَّوْمِ۔ پیانے
 نیزہ مارنا۔ — الشَّيْءُ فِيهِ
 گھستا۔ نفوذ کرنا۔ — الْمَطَرُ۔
 خاص جگہ میں بارش برسنا۔
 — الدَّجَلُ۔ دانتوں میں خلال
 کرنا۔
 اخْتَلَّ — الْأَمْرُ۔ سُست اور
 خراب ہونا۔ — عَقْلُهُ۔
 عقل خراب ہونا۔ — إِلَيْهِ
 محتاج ہونا۔ — الْعَصِيْرُ
 سرکہ بنانا۔ — الْعَصِيْرُ۔ سرکہ
 بنانا۔ — لِحْمَلُهُ دَبْلًا ہونے
 کے باعث گوشت کا کم ہونا۔
 — الرَّجُلُ۔ اپنے لیے
 سرکہ بنانا۔
 تَخَالَوُا۔ تَخَالًا۔ آپس میں
 دوستی کرنا۔
 الْخَلُّ۔ مص۔ سرکہ۔ ریگستانی
 راستہ۔ دبلے جسم والا۔ لاغر۔
 موٹا۔ بوسیدہ کپڑا۔ کپڑے کی
 پھٹن۔ ج۔ أَخِلَّ وَخِلَالٌ۔



دِخَالِبٌ وَخُلُوبٌ وَخَلَابٌ
وَدَلْبُوتٌ، مَوْتُ، خَالِبَةٌ
وَدَلْبَةٌ وَخُلُوبٌ وَ
خَلَابَةٌ وَدَلْبُوتٌ
خَلِبَتِ (س) خَبٌ — امْرَأَةٌ
عورت کا بے وقوف ہونا۔ صفت
(مُخَلَّبَاءُ) —
أَخْلَبَ — الماءُ — پانی کا کیچڑ والا
ہونا۔ صفت (مُخَلَّبٌ)
لَا سَتَّخَلِبَهُ — بظفره — خراش لگانا۔
— الخَلْبُ — جگر کے اوپر کی
جھلی۔ انگور کے پتے۔ ج۔
أَخْلَابٌ (—) وَالْمُخَلَّبُ
ناخن خصوصاً درندہ کے۔ ج۔
مُخَالِبٌ — الْمُخَلَّبُ — درانتی۔
الْخُلْبُ وَالْخُلْبُ — کیچڑ۔ کھجور
کے درخت کا گودا۔ کھجور کے
درخت کی چھال اور اس کی بٹی
ہوئی رسی۔
الْخُلْبُ — بے بارش کا بادل۔
وَالْبَرْقُ الْخُلْبُ وَبَرْقُ
الْخُلْبُ — بے بارش کے بادل
کی بجلی۔ اور "إِنَّمَا أَنْتَ كَبْرَقُ
خُلْبٌ" اس شخص کے حق میں
کہا جاتا ہے جو وعدہ تو کرے مگر
اس کو پورا کر کے نہ دکھائے۔
الْخَلْبِي — فَرِيبٌ — دھوکا۔
الْمُخَلَّبُ — مِنْ الثِّيَابِ —
بہت نقش و نگار والا کپڑا۔
الْخُلْبُوبُ — فَرِيبٌ — دھوکا دینے
والا۔
خَلْبَسَهُ أَوْ خَلْبَسَ — قَلْبَهُ —
فریفتہ کرنا۔
الْخَلَابِسُ — نِزْمُ بَاتٍ —
الْخَلَابِسُ وَالْخَلَابِسُ وَالْخَلَابِسُ

باطل اور جھوٹی باتیں۔
الْخَلَابِسُ — کینے۔ رذیل لوگ۔
خَلَجَ (ن ض) خَلَجًا — کھینچنا۔
کھینچ کر نکالنا — بعینہ۔
آنکھ مارنا۔ آنکھ سے اشارہ
کرنا — الشَّيْءُ — حرکت دینا۔
— هَ بِالسَّيْفِ — تلوار سے
مارنا — الْوَلَدُ — بچہ کا دودھ
چھڑانا — هَ الْأَمْرُ — مشغول
کرنا۔ کہتے ہیں "خَلَجَتْهُ"
أَمُودًا دُنِيَا — دنیا کے بھٹیروں
نے اس کو بھانسن لیا۔
خَلَجَتْ (ن ض) خَلَجًا وَخُلُوجًا
وَدَلْبًا — الْعَيْنُ — آنکھ کا
پھڑکنا۔
خَلَجَ (س) خَلَجًا — تکان یا چلنے
سے بڑیوں کا درد کرنا —
الشَّيْءُ — بگڑنا۔ خراب ہونا۔
خَلَجَ قَلْبَهُ أَمْرٌ — کسی امر کا
دل کو فکر و سوچ میں الجھا دینا۔
أَخْلَجَ — حَاجِبِيَّةٌ — ابروؤں کو
مٹکانا۔
تَخَلَجَ — حرکت کرنا۔ ہلکا۔ جھکنا۔
— الشَّيْءُ — کھینچنا۔
تَخَالَجَتْهُ — الْهَيُومُ — کھینچنا۔
کہتے ہیں "تَخَالَجَ فِي صَدْرِي
شَيْءٌ" میرے دل میں کچھ غلج
ہوا۔
أَخْتَلَجَ — جھڑ جانا — الْعَيْنُ —
پلکوں کا خود بخود پھڑکنا —
الشَّيْءُ فِي صَدْرِهِ — دل کو مشغول
کرنا۔ دل میں غلج ہونا —
الشَّيْءُ — کسی چیز کو کھینچ کر نکالنا
— الْوَلَدُ — بچہ کا دودھ
چھڑانا۔

أَخْتَلَجَ — مِنْ بَيْنِهِمْ — مرنے۔
الْخَالَجُ — فَا — موت۔
الْخَلَجُ — کانپنے والے بدن کے لوگ۔
مشکوک النسب لوگ۔
الْأَخْلَجُ — رسی۔
الْخَلِيجُ — مِنَ الْبَحْرِ — کھاڑی۔ ندی
چھوٹی کشتی۔ رسی۔ ج۔ خُلْجَانُ
وَدَلْبُ — خَلِيجَا النِّهَرِ —
دریا کے دونوں کنارے۔
الْأَخْلِيجُ — ایک قسم کی گھاس —
مِنَ الْخَيْلِ — تیز رفتار گھوڑا۔
خَلْخَلُ — الْعِظَمُ — گوشت
اتار کر بڑی کو صاف کرنا۔
— الْمَرْأَةُ — عورت کو پازیب
پہنانا۔
تَخَلْخَلُ — الشَّيْءُ — پرستہ اجزاء
والانہ ہونا۔ اجزاء کا ایک دوسرے
کے ساتھ ملا ہونا ہونا — مِنْ
مَكَانِهِ — اپنی جگہ سے ہلنا۔
— الْمَرْأَةُ — پازیب پہنانا۔
— الثَّوْبُ — کپڑے کا
بوسیدہ ہونا۔
الْخَلْخَالُ — ج۔ خَلَاخِيلُ — وَ
(الْمَخْلُخَلُ وَالْمَخْلُخَلُ) ج۔
خَلَاخِيلُ — پازیب — ثَوْبٌ
(دَخْلُخَلٌ وَخَلْخَلُ)
الْمَخْلُخَلُ — پنڈلی پر پازیب پینے
کی جگہ۔
خَلَدَ (ن) خُلُودًا — ہمیشہ رہنا۔
(خَلَدًا أَوْ خُلُودًا) باوجود زیادہ
عمر ہونے کے بڑھاپے اور کمزوری
کا ظہور نہ ہونا۔ صفت۔
(خَالِدٌ وَخُلْدٌ) وَ مُخْلِدٌ
وَمُخْلَدٌ — إِلَى الْمَكَانِ
وَبِالْمَكَانِ — کسی جگہ اقامت



کرنا — الی الارض۔ زمین سے چھٹنا۔

خَلَدَ وَ اَخْلَدَ — الی المکان و بالمکان۔ اقامت کرنا۔

— ہ۔ ہمیشہ کے لیے رکھنا۔

— اخلد بصاحبہ۔ ہمیشہ ساتھ رہنا۔ اخلد الیہ مائل ہونا۔ چھکنا۔

الخُلْد — ہمیشگی۔ دوام۔ بقا۔ پھچھوند۔ ج (غیر لفظ سے) مَنَاجِد۔

الخُلْد کنگن۔ بالی۔ ج۔ یَخْلَدُ الخَلْد۔ دل۔ ہمیشہ رہنے والا۔ الخَلْدۃ۔ بالی۔ کنگن۔

الخالد۔ فا۔ ابو خالد۔ کتا۔ الجزائر الخالدات۔ جزائر کناری۔

الخوالد۔ پہاڑ۔ پتھر۔

الخُلر۔ ایک قسم کی نباتات۔ بعض کے نزدیک لوبیا یا ماش۔

خَلَسَ (ض) خَلَسًا و خَلِيسًا — الشیء۔ چھپٹا مار کر چھین لے جانا۔

أَخْلَسَ۔ النبت۔ خشک اور تر

گھاس کا ملا جلا ہونا۔ الراس

سر کے بالوں کا کچھ حصہ سفید ہونا

صفت د خَلَسَ و خَلِيس و

مُخْلِس — اخلست

الارض۔ زمین کا سبزہ اگانا۔

خَالَسَهُ مُخَالَسَةً۔ جلدی کرنا۔

تَخَالَسَ — القوم الشیء۔

ایک دوسرے سے چھیننا۔ کہا جاتا

ہے۔ ”ہما یتخالسان

انفسہما“ یعنی وہ دونوں

ایک دوسرے کے قتل کے

درپے ہیں۔

اِخْتَلَسَ — الشیء۔ دھوکے سے

چھین لینا۔ چھپٹا مار کر چھین لینا۔

— القاری الحریکۃ۔ قاری

کا حرکت کو پُر نہ پڑھنا۔ اس کا

مقابل اشباع۔ ہے۔ اس میں

حرکت کو ایسا پُر پڑھا جاتا ہے

کہ بجائے حرکت کے حرف علت

پیدا ہو جاتی ہے۔

الخُلْسۃ۔ چھپٹ۔ چھپٹی ہوئی چیز۔

مناسب فرصت۔ اور اسی سے

یہ قول الخُلْسۃ سُرِیعۃ

الفوت بطیئۃ العود

فرصت جلد ختم ہونے والی، اور

دیر میں لوٹنے والی ہے۔

الخَلِيس و الخَلَس۔ چوکنا

بہادر۔

الخَلَامِی۔ وہ بچہ جس کے ماں باپ

میں ایک گورا ہوا اور ایک کالا۔

خَلَصَ (ن) خُلُوصًا و خِلَاصًا

خالص ہونا۔ من الهلاك

نجات پانا۔ محفوظ رہنا۔

الماء من الکدس۔ پانی صاف

ہونا۔ الی المکان و

بالمکان۔ کسی جگہ پہنچنا۔

من القوم۔ جُدا ہونا۔

خَلِصَ (س) خَلَصًا۔ اللحم۔

گوشت میں ہڈی کا ٹوٹ جانا۔

خَلَصَہ — من کذا۔ نجات

دینا۔ خَلَصَ الشیء۔ چیز

کو صاف کرنا۔ آمیزش سے پاک

کرنا۔ خلاصہ لینا۔ خَلَصَ

الرجل۔ مثل شے دینا۔

خَالَصَهُ مُخَالَصَةً۔ فی العشرۃ

او المودۃ۔ معاملہ میں صفائی

برتنا۔ خالصہ الود۔

خالص دوستی کرنا۔

تَخَالَصًا۔ ایک دوسرے کے ساتھ

صفائی کا برتاؤ کرنا۔ خالص دوستی

کرنا۔

أَخْلَصَ۔ الشیء۔ خلاصہ نکالنا۔

چن لینا۔ ۵ اللہ۔ عیوب

سے خالی کرنا۔ الطاعۃ

و فی الطاعۃ۔ طاعت میں

ریا کاری نہ کرنا۔ لہ الخُب

او القول۔ محبت یا بات کو

کھوٹ سے خالی کرنا۔

تَخَلَّصَ۔ منہ۔ نجات پانا۔

جدا ہونا۔ من کذا الی کذا

منتقل ہونا۔

اِسْتَخْلَصَہ۔ چن لینا۔ پسند

کرنا۔ الشیء منہ۔ واپس

لینا۔ حاصل کرنا۔

الخَلَاص۔ مص (د) و الخلاص

کھوٹ سے خالی کیا ہوا (سونا

چاندی، مکھن وغیرہ)

الخُلَاصۃ و الخِلَاصۃ۔ خالص

گھی۔ پھر ہر اس چیز پر اطلاق

ہونے لگا جو غیر کی آمیزش سے

پاک ہو۔ اور اسی سے ہے۔

”خلاصۃ الکلام“

الوِخَلَاص و الاِخْلَاصۃ۔

تلخیص سے صاف کیا ہوا مکھن

— کلمۃ الاخلاص

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

الخَلَص۔ ہر سفید شے۔

الخُلَص۔ ج۔ خُلَصَاء و الخُلَصَان

یار۔ مخلص دوست۔ ”خُلَصَان

مفرد و جمع ہر دو کے لیے مستعمل

ہوتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں ”هُوَ

خُلَصَانِي وَ هُوَ خُلَصَانِي“



الْخَالِصُ - فا۔ بے گھوٹ۔ صاف رنگ۔ کہتے ہیں۔ "هَذَا ثَوْبٌ خَالِصٌ" یعنی یہ صاف رنگ کا کپڑا ہے۔ ج۔ خُلِّصَ۔ الْخَالِصَةُ - الخالِص کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے۔ "هو خالِصتي" وہ میرا دوست ہے۔ "وهذا الشيء خالِصة لك" یہ چیز تمہارے لیے خالص ہے۔ الْخُلُوصُ - گھوڑے سے تیار کی ہوئی رُبّ صاف گھی کے نیچے رہ جانے والی تلمچھٹ۔ الْمُخْلِصُ - فا۔ نجات دلانے والا۔ خَلَطَ دَمًا، خَلَطًا وَخَلَطَ - الشيء بالشيء - ایک چیز کو دوسری سے ملانا۔ کہا جاتا ہے۔ "خَلَطَ المريضُ" بیمار نے مضر چیز کھائی۔ "وخلط في الكلام" اس نے بکواس کی۔ "خلط في الشيء" خراب و فاسد کیا۔ أَخْلَطَ - الفرس - گھوڑے کا دوڑنے میں کوتاہی اور کمزوری دکھانا۔ خَالَطَهُ - خَالَطَةً وَخَالَطًا - غلوط ہونا۔ آمیزش کرنا۔ میل ملاپ کرنا ساتھ رہنا۔ الداء فلا تًا۔ کسی میں بیماری کا اثر جمالینا۔ خَوَّلَطَ - في عقله - مخبوط الحواس ہونا۔ اخْتَلَطَ - ملنا۔ الظلام تاریکی کا سخت ہونا۔ الرجل عقل خراب ہونا۔ الفرس گھوڑے کا دوڑنے میں کوتاہی کرنا تَخَالَطُوا - آپس میں ایک دوسرے

کے ساتھ گتھ جانا۔ الْخَلَطُ - مص۔ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا اور چا پلوسی کرنے والا۔ الْخِلَطُ - ٹیڑھا تیز۔ ٹیڑھی کمان۔ احمق۔ کہتے ہیں۔ "هو خِلَطٌ بين الخلاطة" وہ صاف اور کھلا بیوقوف ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز سے ملے۔ ج۔ أَخْلَطَ - حرامی۔ کہتے ہیں "رجلٌ خِلَطٌ مِلَطٌ" یعنی مخلوط نسب کا آدمی۔ الْأَخْلَاطُ - ملی علی قسمیں۔ اخلاط الجسد في عرف الاقداميين۔ بدن کے چار اخلاط خون۔ بلغم۔ سودا، صفراء۔ و اخلاط القوم۔ قوم کے اوباش بچے لوگ۔ الْخِلَاطُ - بیوقوف۔ الْخُلُطَةُ - شرکت۔ الْخِلَاطُ - آدمیوں اور جانوروں کا ملا جلا گروہ۔ الْخِلَاطَةُ - عقل کی غرابی۔ حماقت۔ الْخَلِيطُ - ج۔ خُلُطٌ وَخُلُطَاءٌ - خلط ملط رکھنے والا۔ شریک وہ لوگ جن کا معاملہ ایک ہو۔ خاوند۔ ہمسایہ ساتھی۔ بھوسہ ملی ہوئی مٹی۔ خلیط الرجل۔ میل جول رکھنے والا۔ کہتے ہیں "خلیط من الناس" اوباش۔ الْخُلَيْطِيُّ وَالْخُلَيْطِي - اوباش۔ کہا جاتا ہے۔ "وقعوا في خُلَيْطِي" لوگ گڑبڑی میں پڑ گئے۔ اِلْمَخْلَاطُ وَالْمَخْلُطُ - بہت میل

جول رکھنے والا۔ جمل مختلف۔ موٹا فربہ اونٹ جس کی چسبہ گوشت کے ساتھ مل گئی ہو۔ خَلَعَ دَفًا، خَلَعًا - الشيء - اتارنا۔ کتفہ اور درندہ۔ عضو کو اپنی جگہ سے ہٹانا۔ القائد قائد کو معزول کر دینا۔ الدابة جانور کو بندش سے آزاد کر دینا یا چھوڑ دینا۔ العزاة - حیا کو خیر باد کہنا۔ اور اپنی خواہش کا بندہ بننا۔ علیہ ثوبًا۔ کسی کو خلعت بخشنا۔ خَلَعَ الشجر - درخت کا اپنے پرانے پتے جھاڑ کر نئے پتے نکالنا۔ خَلَعَ دَفًا خَلَعًا وَخَلَعًا - ابنہ۔ بیٹے کو عاق کرنا۔ صفت مفعولی (خَلِيع)۔ امواتہ۔ مال کے عوض طلاق دینا۔ صفت مفعولی (خَالِيع) اسم (الْخُلْعَةُ) خُلِعَ - المیت - میت کا کفن جدا کیا جانا۔ خَلَعَ دَفًا، خَلَعَةً - خواہشات نفسانی کا بندہ بننا۔ بے حیا ہونا۔ خَالَعَ مَخَالَعَةً - الرجل زوجة او المرأة زوجا۔ مال معین کے عوض میں جدائی اختیار کرنا۔ وخالَعَ الرجل جواکھیلنا خَلَعَهُ - الگ الگ کرنا۔ خالص کرنا۔ أَخْلَعَ - السنبُل - بالی میں دانے آنا۔ الشجر - درخت کا نئے پتے نکالنا۔ تَخْلَعُ - في المشي - چلنے میں پیروں کو الگ الگ رکھنا۔

فی الشراب - منکم ہونا۔
تَخَالَعَ - الزوج والزوجۃ۔
خاوند بیوی کا ایک دوسرے
سے مال پر ہدائی اختیار کرنا۔
ایک دوسرے کو چھوڑنا۔
القوم - باہم عہد توڑنا۔
لَا تَخْلَعُ - اپنی جگہ سے ہٹ جانا
اکھڑ جانا۔
لَا تَخْتَلَعْ - الشیء - کسی شے کو نکال
لینا۔ کھینچ لینا۔ اختلعا
الرجل - کسی کا مال لے لینا۔
اختلعت المرأة من
زوجہا - عورت کا اپنے خاوند کا
مال دے کر رات لے لینا۔ اسم۔
(الخُلْع) الخُلْع - پوشاک کے طور
پر بخشی جاتی ہے۔ اتارا ہوا
کپڑا۔ عمدہ مال۔
الخُلْعۃ - عمدہ مال۔ کمزوری۔
کتے میں "فیہ خلعة" اس
میں کمزوری ہے۔
الخُلَاع - ایک قسم کی دیوانگی جس
میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔
الخَلِیع - عاق کیا ہوا بیٹا۔ عیاش
معزول کیا ہوا۔ خبیث
پکا جوئے باز۔ ج۔ خُلَعَاء
بھیڑیا۔ بھوت۔ ثوب
خَلِیع - بوسیدہ کپڑا۔
الخَلِیعۃ - بے حیائی۔ الخلیع
کا مونث۔ خود مختار عورت۔
الخَوَلَع - احمق۔ آٹے سے تیار
کیا ہوا کھانا۔ سرک میں جوش دیا
ہوا گوشت جو سفروں میں ہمراہ
رکھا جاتا ہے۔ بھیڑیا۔
والخلیع، دل پر چھانے والا

خوف - الخلیع بے
آستینوں کی قمیص۔ رجل
خلیع کمزور آدمی۔
المُخْلَع - مفع۔ من الرجال۔
کمزور ڈھیلے جوڑوں والا۔ اکھڑے
ہوئے جوڑوں والا۔ وہ شخص
جس کا پورا بدن یا کچھ حصہ بدن
کا بے حس و حرکت ہو۔
خَلَفَهُ انْ خِلَافَةً وَ خَلِیفَتِی۔
جانشین ہونا۔ رَبُّہ فی
قومہ۔ جانشین بنانا۔
الرجل۔ بعد میں رہ کر کسی کا قائم
مقام ہونا۔ (خَلَفًا وَ
خِلَفَةً)۔ الفاکہۃ
بَعْضُهَا بَعْضًا۔ ایک دوسرے
کے قائم مقام ہونا۔ خَلَفًا وَ
خِلَفَةً)۔ (خَلَفَةً
دَخُلُوْا)۔ الغلام۔
بے وقوف ہونا۔ صفت (خَالِف
وَ خَالِفَةً)۔ عن خلق
ابیہ۔ اپنے باپ کی عادت و
خصلت سے بدلا ہوا ہونا۔
خُلُوفًا وَ خُلُوفَةً)۔ ضَمُّ
الصَّائِح۔ روزہ دار کے منہ
کی بوکا متغیر ہونا۔ الطعام
کھانے کے مزے یا بوکا متغیر
ہونا۔ (دخ، خَلَقًا۔
الرجل لاهلہ۔ اپنے گھر والوں
کے لیے پانی لانا۔ البیت
مکان کے پچھلے حصہ میں ستون
لگانا۔ اباہ۔ اپنے باپ
کے قائم مقام ہونا۔ کہتے ہیں۔
"خلف الله لك وعلیک"
خدا تعالیٰ تم کو عوض و بدلہ دے
— الثوب۔ کپڑے کی درستی

کرنا۔ عن اصحابہ۔ ساتھیوں
سے پیچھے رہ جانا۔ فلائاً۔
کسی کو پیچھے سے پکڑنا۔ جانشین
ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ "خَلَفَ لہ
بالسیف" پیچھے سے آکر تلوار کا
گردن پر وار کرنا۔ خَلَفَ لہ
بخیراً وشر۔ کسی کا پیٹھ پیچھے
بھلا یا برا ذکر کرنا۔
خَلِیف (س) خَلَفًا۔ بائیں ہتھکا
ہونا۔ بھیینکا ہونا۔ بے وقوف ہونا
— خِلَفَتِ النّاقۃ۔ اونٹنی
کا حاملہ ہونا۔
خَلَفَ - الشیء - پیچھے چھوڑنا۔ مؤخر
کرنا۔ ۵۔ کسی کو خلیفہ بنانا۔
خَالَفَ خِلَافًا وَ مُخَالَفَةً۔
مخالفت کرنا۔ خالف عن کذا۔
پیچھے رہنا۔ بین رجلیہ
پاؤں کو آگے پیچھے کرنا۔ کہا جاتا ہے
خَالَفَتِی عن کذا۔ جبکہ وہ
اعراض کر رہا ہوا ورم اس کا
قصد کر رہے ہو۔ "خَالَفَتِی
الی کذا" جبکہ تم اعراض کرنے
والے ہو اور وہ قصد کرنے والا۔
أَخْلَفَ۔ بوکا متغیر ہونا۔ خراب ہونا۔
— الثوب۔ کپڑے کی درستی
کرنا۔ لاهلہ۔ اپنے اہل کے
لیے پانی طلب کرنا۔ وعدہ
او بوعدہ۔ وعدہ پورا نہ کرنا۔
— ۵۔ کسی کو وعدہ خلاف پانا۔
— الغیث۔ بارش کی امید
بندھنے کے بعد اس کا نہ برسنا۔
— الشجرۃ۔ کافی ہوئی شاخ
کے بعد درخت کا دوسری شاخ
نکالنا۔ الطائر۔ پرندے کا
پہلے پروں کے بعد دوسرے پر



نکالنا۔ الغلام۔ لڑکے کا

جوانی کے قریب پہنچنا۔

لنفسہ۔ ایک چیز کھونے کے

بعد دوسری کو اس کا قائم مقام

بنانا۔ ۵ پیچھے بٹانا۔

الدواء فلاناً۔ دوا کا کسی کو

کمزور کر دینا۔ اللہ علیہ۔

کھوئی ہوئی چیز کا عوض و بدلہ دینا۔

تَخَلَّفَ۔ عنہم۔ پیچھے رہنا۔

القوم۔ قوم کو پیچھے چھوڑ کر

آگے نکل جانا۔

تَخَالَفُوا وَاخْتَلَفُوا۔ آپس میں

اختلاف کرنا۔ ناموافق ہونا۔

اِخْتَلَفَ۔ جانشین ہونا۔ اپنے

پیچھے کرنا۔ پیچھے سے پکڑنا۔

وَاخْتَلَفَ اِلَى الْمَكَانِ كَسَى جِلْجَہ

بار بار جانا۔

اِسْتَخْلَفَ۔ اپنا خلیفہ و جانشین

بنانا۔ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ

قائم مقام کرنا۔ استخلف

الارضُ۔ زمین کا گرمی کی گھاس

اگانا۔

الخَلْفُ۔ مص۔ ایک گروہ کے بعد

ایک گروہ۔ اور اسی سے ہے۔

”هُوَ لَاعْخَلْفُ سَوْءٍ“۔ یہ ان کے

حق میں بولتے ہیں۔ جو اپنے سے

زیادہ لوگوں کے ساتھ لائق ہوں۔

ردی۔ مقولہ ضرب المثل ہے۔

”سَكَتَ الْفَاوْطَنْ حَلْفًا“۔

ہزاروں باتوں سے تو خاموش رہا

اور جب مہر خاموشی توڑی۔ تو

ردی بات منہ سے نکالی۔ کھٹاری

کی دھار۔ کھٹاڑا۔ بے خیر آدمی۔

پسوں کی سب سے چھوٹی پسلی۔

ج۔ خُلُوفٌ وَخَلْفٌ۔ پیچھے۔

بعد ازاں۔

الخُلْفُ۔ وعدہ کا ایفاء نہ کرنا۔ وعدہ

پورا نہ کرنا۔ خلاف۔ مفروض خلیف

کی جمع۔ ”قیاس الخلف“۔ منطق

کی اصطلاح میں ایک نقیض کے

امتناع سے دوسرے نقیض کے

تحقق پر استدلال کرنا۔

الخِلْفُ۔ مختلف۔ اونٹنی کے تھن

کا سرا۔ گرمی کے موسم میں اُگنے

والی گھاس۔ ج۔ اَخْلَافٌ وَ

خِلْفَةٌ۔ الخِلْفَانِ۔ دو

مخالف صفات کی چیزیں۔ کہا

جاتا ہے ”لہ ولدان خلفان“

اس کے دو مختلف الصفات

بچے ہیں۔ ایک عقل مند ہے دوسرا

بے وقوف۔ یا ایک دراز قامت

ہے دوسرا پست قد۔ کہتے ہیں

”وُلِدَتِ النَّاظِلَةُ خِلْفَيْنِ“

اونٹنی نے ایک سال بچہ دیا۔

اور ایک سال مادہ بچہ۔

ذات الخلفین۔ وہ کھٹاری جس

کے دوسرے ہوں۔ ج۔ ذوات

الخلفین

الخَلْفُ۔ بچہ۔ نیک بچہ۔ بدل عوض۔

کہتے ہیں ”فِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ

خلف ممن مضی“ یعنی اس

قوم میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے

اگلوں کے جانشین ہیں۔ کسی

کے بعد حاصل ہونے والی شے۔

کہتے ہیں ”اَعْطَاكَ اللّٰهُ

خَلْفًا مِنْ تَلْفٍ“ اللہ تعالیٰ

تم کو ضائع شدہ شے کا بدلہ و

عوض عطا فرمائے۔ نسل۔ ذریت۔

کہا جاتا ہے ”هُمَ كَرَامٌ

خَلْفًا عَنْ سَلَفٍ“ یعنی ان کو

شرافت و بزرگی اپنے باپ و ادا

سے وراثت میں ملی ہے ”وَهُوَ

خَلْفٌ صَدِيقٌ عَنِ اَبِيہ“

وہ اپنے باپ کا اخلاق و صفات

میں سچا جانشین ہے۔

الخَالِفُ۔ فا۔ احمق۔ وہ جو ایک

شخص کے جانے کے بعد بیٹھا

رہے ”نَبِيذٌ خَالِفٌ“ خراب

شدہ انگور کا رس۔

الخَالِفَةُ۔ الخَالِفُ کا مؤنث۔

ایک جماعت کے گزرنے کے بعد

باقی ماندہ جماعت۔ مکان کے

پچھلے حصہ کا ستون۔ رجلٌ

خَالِفَةٌ۔ بیوقوف جھگڑالو آدمی۔

بہت اختلاف کرنے والا۔ کہتے

ہیں ”مَا دَرَى اَيُّ خَالِفَةٍ هُوَ

وَ اَيُّ الْخَالِفِ هُوَ“ یعنی میں

نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے۔

الخَوَالِفُ۔ عورتیں۔ دیر سے سبزہ

اگانے والی زمینیں۔

الْخِلَافُ۔ ناموافقیت۔ بید کا

درخت۔ قمیص کی آستین۔

الْمَسَائِلُ الْخِلَافِيَّةُ۔ مختلف

فیہ مسائل۔

الْخِلَافَةُ۔ امارت۔ امامت۔

جانشینی۔

الْخِلْفَةُ۔ بیماری سے اشتہاء کا جاتا

رہنا۔ ج۔ خَلْفٌ

الْخِلْفَةُ۔ آمدورفت۔ مخالفت۔ مختلف

کپڑے کا پیوند۔ گرمی کے موسم میں

اُلی ہوئی گھاس۔ وہ چیز جو سوار

کے پیچھے لٹکائی جائے۔ باقی ماندہ۔

کہا جاتا ہے ”هَنْتَ جَمَشِيْنِ

خِلْفَةً“ وہ سب کے بعد دیکھ

آ جا رہی ہیں۔ وَجَعَلَ الدَّلِيلَ



والنهار خَلْفَةً۔ یعنی رات و دن کو آگے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ و قوم خلفۃ۔ اختلاف کرنے والے لوگ۔ و فی البئر خلفۃ من الماء۔ کنوئیں میں بچا ہوا پانی ہے۔ الخلفۃ۔ مخالفت۔ بے وقوفی۔ عیب۔ کھانے کا آخری مزہ۔ الخلیف۔ دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ۔ پہاڑی راستہ۔ میعاد سے پیچھے رہنے والا۔ خلف و عدگی کرنے والا۔ ج۔ خَلْفٌ و خَلْفٌ و خَلْفٌ الخلیف۔ وہ عورت جو اپنے بالوں کو پیچھے لٹکائے۔ الخلیفۃ۔ جانشین۔ قائم مقام۔ سب سے بڑا بادشاہ۔ یہ مذکر ہے۔ کہتے ہیں۔ ”ہذا خلیفۃ آخری“ کہی لفظ کا لحاظ کرتے ہیں۔ مؤنث مستعمل ہوتا ہے مثلاً کہتے ہیں۔ ”خلیفۃ آخری“ ج۔ خَلْفَاء و خَلَائِف۔ بمحاذ اول عدد مذکر لاتے ہیں۔ ثلاثة خلفاء۔ اور بمحاذ ثانی عدد کو مذکر و مؤنث ہر دو طریق سے لانا جائز ہے۔ کہہ سکتے ہیں ثلاثة او ثلاث خَلَائِف۔ الْأَخْلَاف۔ بائیں ہتھا۔ بھینگا۔ کم عقل۔ سیلاب۔ زسانپ۔ المِخْلَاف۔ بڑا وعدہ خلاف آدمی ج۔ مَخَالِيف۔ المِخْلَاف۔ صوبہ۔ اور اسی سے ہے۔ ”مَخَالِيف الیمین“ یمین کے صوبے۔ المَخْلَفۃ۔ وہ جگہ جہاں بید کے

درخت بہت ہوں۔ راستہ مرحلہ منزل۔ خَلْفَہ (دن) خَلْفًا و خَلْفَۃ۔ پیدا کرنا۔ عدم سے وجود میں لانا۔ — الکذب۔ جھوٹ گھڑنا۔ — الادلیح۔ کاٹنے سے پہلے چمڑے کا اندازہ کرنا۔ — الشیء۔ ہموار کرنا۔ چکنا کرنا۔ ملائم کرنا۔ خَلِیق (دس) خَلْقًا و خَلِیق (دک) خُلُوقًا و خُلُوقَۃً و خَلَاقَۃً چکنا و نرم ہونا۔ خَلِیق (دن) و خَلِیق (دس) و خَلِیق (دک) خُلُوقَۃً و خَلْقًا — الثوب۔ کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ — خَلِیق الشیء لہ۔ کوئی چیز کسی کے لیے لائق و سزاوار ہونا — خَلِیق الغلام۔ اچھے اخلاق والا ہونا۔ خَلْفَہ۔ خَلُوق؟ خوشبو لگانا۔ — العود۔ لکڑی کو ہموار و برابر کرنا۔ — القِدْح۔ تیر کو نرم کرنا۔ خَالَفَہُم مَخَالَفَۃً۔ حسن خلق کے ساتھ معاشرت کرنا۔ آخَلِق۔ الثوب۔ کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ — الشباب۔ جوانی کا ختم ہو جانا۔ — الثوب۔ کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ — ۵ الثوب۔ کسی کو بوسیدہ کپڑا پہنانا۔ کہا جاتا ہے ”اخلفت لہ دیبا جتی“ میں نے اس کو اپنے ایسے بھید سے باخبر کیا جس کے ظاہر ہونے سے مجھے عار ہے۔

تَخَلَّق۔ ”خَلِیق“ خوشبو لگانا۔ — ”بغیر خَلِیقہ“ بناوٹی غلیق بنا۔ اور اسی سے ہے یہ قول۔ ”لیس التَخَلَّق بالاخلاق“ کا لَخْلَق۔ بناوٹی اخلاق طبعی عادات کے مثل نہیں — و اخْتَلَق الکِذْب۔ جھوٹ گھڑنا۔ اِخْلُوق۔ الثوب۔ کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ — الرسم۔ کھنڈر کا زمین کے ساتھ برابر ہو جانا۔ — متن الفرس۔ گھوڑے کی پیٹھ کا چکنی ہونا۔ — الدار۔ گھر کا ویران ہونا۔ اجاڑ ہونا۔ یہ کبھی عسی کی طرح امید کے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ ”اِخْلُوقِ السَّمَاء اَنَّ تَمُطَّر“ امید ہے کہ بارش برس جائے۔ الخَلِیق۔ مص۔ فطرت۔ لوگ۔ ہر چکنی چیز۔ الخَلِیقۃ۔ فطرت۔ ہیئت ج۔ خَلِیق الخَلِیق و الخَلِیق طبعی خصلت۔ طبیعت۔ مروت۔ عادت۔ ج۔ آخَلَاق۔ علم الاخلاق حکمت عملیہ کی ایک قسم کا نام ہے اس کو حکمت خَلِیقِیۃ بھی کہتے ہیں۔ الخَلِیق۔ مص۔ بوسیدہ۔ (مذکر و مؤنث) کہتے ہیں۔ ”ثوبٌ خَلِیقٌ و حُبۃ خَلِیق“ ج۔ آخَلَاق و خُلُقَان — نیز کہتے ہیں۔ ”ثوبٌ اخلاق و ثياب اخلاق“ الخَلِیق۔ بارش کے نشان والا بادل۔

الْخَلْقِ - بھلائی کا بڑا حصہ۔
 الْخَلْقِ - چکنا۔
 الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ - ایک قسم کی
 خوشبو جس کا جزو اعظم زعفران
 ہوتا ہے۔
 الْخَلِيقُ - لائق - مناسب - کہتے ہیں
 ”ہو خلیق بہ“ وہ اس
 کے لائق ہے۔ کامل اخلاق والا۔
 ج۔ خُلُقٌ وَخُلُقَاءُ۔
 الْخَلِيقَةُ - طبیعت - مخلوق - وہ
 کنواں جو کھودا جارا ہو۔ ج۔
 خَلَا بَقِ -
 الْأَخْلَقُ - زیادہ لائق - زیادہ
 مناسب - چکنا - فقیر - مؤثر۔
 خَلْقَاءُ۔
 الْمُخْتَلِقُ - کامل و متدل الاخلاق
 الْمُخْتَلَقُ - کریم الاخلاق - کہتے
 ہیں ”هُوَ فَخْلَقَهُ بِذَلِكَ وَ
 لَذَلِكَ“ وہ اس کے لائق ہے۔
 الْخَلْقَيْنِ - بڑی دیگ - ج۔
 خَلَا قَيْنِ۔
 خَلَا دَن، خُلُوًّا وَخَلَاءُ۔
 الْاِنَاءُ - برتن کا خالی ہونا۔
 الْمَكَانُ - جگہ کا رہنے والوں سے
 خالی ہونا۔ الرَّجُلُ - آدمی
 کا کسی جگہ تنہا ہونا۔ عَلٰی الشَّيْءِ
 اِقْتَصَارُ كَرْنَا - بس کرنا۔
 عَلٰی فُلَانٍ - کسی پر اعتماد کرنا۔
 - بہ - کسی کے ساتھ فریب
 کرنا۔ الشَّيْءُ - گزر جانا کہتے
 ہیں ”فَعَلَّتْهُ لَخْمِيسَ خُلُونٍ
 مِنْ الشَّهْرِ“ میں نے اس کو
 مہینہ کی پانچویں تاریخ کیا۔
 عَنْ الْأَمْرِ وَهْنَهُ - کسی امر
 سے بری ہونا۔ بیزار ہونا۔

عَنِ الشَّيْءِ - بھیجنا۔ بالشَّيْءِ۔
 كَسَى شَيْءَ كَسَى سَاةً تَنْهًا، اور
 منفرد ہونا۔
 خَلَا دَن، خُلُوًّا وَخَلَاءُ۔
 - بہ و معہ والیہ - کسی
 کے ساتھ تنہائی میں ملنا۔ اُکٹھا ہونا
 کہا جاتا ہے ”خَلَا الرَّجُلُ
 بِنَفْسِهِ - تنہا ہونا۔ منفرد ہونا۔
 خُلُوتٌ مِّنْ جَانَا - الامر۔
 کسی کام کے لیے فارغ ہونا۔
 کسی کام میں اپنے آپ کو لگا دینا
 - بِالْمَكَانِ كَسَى جگہ کو لازم
 پکڑنا۔ بِاللَّه - دراکا تسلی
 حاصل کرنا مطمئن ہونا۔
 الْحَزَنُ - غم سے جدا ہونا۔
 صِفَتُ (خَالٍ) ج۔ خُلُوًّا۔
 کہتے ہیں ”افْعَلْ كَذَا وَخَلَاكَ
 ذَمٌّ“ یعنی اس کام کے
 کرنے پر تم پر کوئی مذمت و
 ملامت نہیں۔
 خَلَّى - تَخْلِيَةً - الامر و عہ
 چھوڑنا۔ مَكَانَهُ - مرنا۔
 - سَبِيلَهُ - آزاد چھوڑنا۔
 - بَيْنَ الْمَشْتَرِي وَالْمَبِيعِ -
 سپرد کرنا۔ بَيْنَهُمَا - دونوں
 کو اکٹھا چھوڑنا۔
 خَالَاةٌ - خُصَا لَاةٌ - چھوڑ دینا۔
 أَخْلَى اخْلَاءً - الْمَكَانُ - جگہ کو
 خالی کرنا یا خالی پانا۔ الْمَكَانُ
 خالی ہونا۔ ۴ وہ و معہ
 کسی سے تنہائی میں ملنا۔
 فَلَانًا مَعَهُ - کسی کو کسی کے
 ساتھ تنہائی و خلوت میں ملنے دینا
 - عَنْ - چھوڑ دینا۔
 تَخَلَّى - کسی کے ساتھ خلوت میں

ہونا۔ مِنْهُ وَعَنْهُ - چھوڑنا
 - لہ کسی کام کے لیے فارغ
 ہونا۔ تَخْلِيَةً - اپنے لیے شہد
 کا چھتہ مہیا کرنا۔
 أَخْتَلَى - تنہائی و خلوت میں ہونا۔
 اسْتَخْلَى - ۵۔ کسی سے تنہائی
 میں ملاقات چاہنا۔ بِالْمَلِكِ -
 علیحدگی ملنا۔ الْمَكَانُ - کسی جگہ
 کا خالی ہونا۔
 الْخَلَاءُ - مص - خالی جگہ۔ پائخانہ
 - مَكَانٌ خَلَاءٌ - خالی جگہ۔
 سوئی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”بَاتَ
 فِي الْمَلِكِ الْخَلَاءُ“ اس نے
 سونے شہر میں رات گزاری۔
 ”خَلَاوَكُ اقْتَنَى لِحَبَائِكُ“
 یعنی مکان میں ہتھار اٹھار ہٹا ہٹھاری
 عیب پوشی کا زیادہ فائدہ
 ذمہ دار ہے۔ ”وَانَا مِنْهُ خَلَاءُ“
 میں اس سے بری ہوں (یہ مفرد
 تثنیہ جمع، مذکر مؤنث سب کے
 لیے یکساں مستعمل ہوتا ہے)
 الْخُلُو - خالی (مذکر مؤنث ہر دو کے
 لیے) ج۔ أَخْلَاءُ - کبھی مؤنث
 کے لیے خلوة بولتے ہیں۔
 خَلَا - وَ مَا خَلَا يَهْ كَلِمَةً اسْتِثْنَاءُ
 ہے۔ یعنی إِلَّا باعتبار فعلیت
 مستثنیٰ کو نصب دیتا ہے۔ جیسے
 ”جَاءَ اتِّبَاعُ الْأَمِيرِ خَلَا وَ مَا
 خَلَا زَيْدٌ ۱۔ اور بصورت حرف
 جر، جر دیتا ہے۔ جیسے ”خَلَا
 زَيْدٌ ۲۔ الیہ اگر خَلَا سے
 پہلے مَا مصدر یہ ہو تو اس کا فعل
 ہونا متعین ہے۔
 الْخُلُوَّةُ - تنہا جگہ۔ مقام خلوت۔ ج۔
 خُلُوتَاتُ۔

کا خراب ہونا — فلاٹا۔ کسی کو
برائی سے یاد کرنا۔
خَمْ خَمْ — تاک میں بولنا۔
الخَمْخَمْ — ایک سمندری جانور۔
الخَمْخَمْ — ایک خاردار گھاس۔
خَمَدَت (ن) وَخَمَدَت (س)،
خَمَدًا وَخَمُودًا — النارُ
آگ کی بھرک کا ختم ہونا۔ اور
چنگاریوں کا نہ بھجنا — الخَمْ
بخار کے جوش کا ختم ہونا۔
المريضُ۔ بیمار کا بے ہوش ہونا۔
مرنا۔

أَخَمَد — الرجلُ۔ آدمی کا بے حرکت
ہونا۔ خاموش ہونا۔ انقاسُ۔
مار ڈالنا یا ذلیل کرنا۔ النارُ
آگ کی لپٹ کو بجھانا۔
الخَمْودُ۔ بجھانے کے لیے آگ
کے دبانے کی جگہ۔
خَمَرَة (ن ص) خَمْراً۔ چھپانا۔
— الشَّهَادَة۔ چھپانا۔
الرجلُ۔ کسی کو شراب پلانا۔
العَجِينُ۔ آٹے میں خمیر دینا۔
— فلاٹا۔ کسی سے شرمانا۔
خَمَر (س) خَمْراً۔ غم۔ چھپنا۔
پوشیدہ ہونا۔ عند الخَمَر
کسی سے خبر کا پوشیدہ رہنا شئی
چیز کا بدل جانا۔
خَمَر العَجِينُ۔ آٹے میں خمیر دینا
— دجمہ۔ چہرہ ڈھانپ لینا
— بیتہ۔ گھر میں جمار ہونا۔
خَامَرَةً خَمَرَةً۔ بیچ میں دھوکا
دینا۔ القلبُ۔ دل میں داخل
ہونا۔ الشئی الآخرُ۔ ایک
شے کا دوسری میں مل جانا۔
۵ الداءُ۔ بیماری کا اندر تک

جھاڑو دینا۔ — البئرُ۔ کنویں کو
صاف کرنا۔ — الناقَة۔ اونٹنی
کو دوہنا۔ فلاٹا۔ کسی کی
تعریف کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ہو
یخمد ثياب فلان، وہ فلاں
کی مدح سرائی کرتا ہے۔ —
خَمًا وَخُمُومًا وَأَخَمًا۔
اللحمُ۔ گوشت کا بدبودار ہونا
صفت (خَمْ وَخَامٌ وَخَمَدٌ)
— اللبنُ۔ دودھ کا بگڑ جانا۔
کہتے ہیں۔ فلاں لایخمد فلاں
اپنے کرم سے نہیں بدلتا۔
خَمْ۔ الدجاجُ۔ مرغیوں کا ڈربہ
میں بند کیا جانا۔
تَخَمَّمَ۔ دسٹروان کا بقیہ کھانا
کھانا۔
اِخْتَمَّ۔ البیتُ۔ گھر میں جھاڑو
دینا۔ الشئیُ۔ کاٹنا۔
الخَمَامَة۔ کوڑا کرکٹ۔ خاک
چاہ۔ کھانے کے بھرے ہوئے
ریزے۔
الخَمْ۔ مرغیوں کا ڈربہ۔ ج۔ خَمَمَة۔
الخَمْ۔ خالی باغ۔
الخَمَّانِ وَالْخَمَّانِ وَالْخَمَّانِ
رذیل لوگ۔ پرانا روی سامان۔
ناکارہ درخت۔
المِخْمَلَة۔ جھاڑو۔
الخَمِيمُ۔ تازہ دودھ۔ تعریف کیا
ہوا۔ سُسْت — قلب
(مُخْمُوم) وہ جو حسد و کینہ
سے پاک ہو۔
خَمِيمَج (س) خَمْجًا۔ بیماری یا تکان
کی وجہ سے سست ہونا۔ اللحمُ
گوشت کا بدبودار ہونا۔
دینہ اوخلقة۔ اخلاق وغیرہ

الْخَلِيَّةُ۔ شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔
ج۔ خلا یا۔
الْخَلِيَّةُ۔ بڑی کشتی۔ شیر کی جھاڑی۔
الْخَلِيَّ۔ فارغ۔ بے فکر جس کی بیوی
نہ ہو۔ کہا جاتا ہے۔ انا خَلِيٌّ
منہ میں اس سے بری ہوں
ج۔ أَخْلِيَا وَخَلِيُّونَ —
الْخَلِيَّ۔ شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔
الْحَالِي۔ کنورا یا کنواری۔ ج۔ أَخْلَاءُ
خَلِيٍّ (ص) خَلِيًّا۔ النبیاتُ۔ گھاس
کاٹنا۔ الماشية۔ جانوروں
کے لیے گھاس کاٹنا۔ الفرسُ
گھوڑے کے منہ میں لگام لگانا
— المَجَامِ مِنَ الْفَرَسِ۔
لگام نکال لینا۔ الشعيرُ
فی المخلقة۔ توہرے میں جو
ڈالنا۔ — الْقَدَرُ۔ ہانڈی
کے نیچے ایندھن لگانا۔ ہانڈی
میں گوشت ڈالنا۔
خَالِيٌ مَخَالَةً — ۵۔ پچھاڑنا۔
دھوکہ دینا۔
أَخْلَى۔ المكانُ۔ کسی جگہ کا زیادہ
گھاس والی ہونا۔ الدابةُ
جانور کو گھاس چرانا۔
اِخْتَلَى۔ العشبُ۔ گھاس کاٹنا۔
اِنْخَلَى۔ الْخَلِيَّ۔ گھاس کاٹنا۔
اِخْلَوْنِي۔ اِخْلِيلَاءً۔ الرجلُ
آدمی کا دودھ پینے میں ہمیشگی
اختیار کرنا۔
الْخَلِيَّ۔ تر گھاس۔ ج۔ أَخْلَاءُ
واحد (خَلَاة)
المِخْلَى۔ گھاس کاٹنے کا آلہ۔
درانتی۔
المِخْلَاةُ۔ توہرا۔ ج۔ مَخَالُ۔
خَمْ دَن (ص) خَمًا۔ البیتُ



اثر کر جانا۔ بیتہ۔ گھر
 میں جمار ہنا۔ بلا۔ چھپنا۔
 اُخْمِر۔ چھپنا۔ لہ۔ کسی سے
 کینہ رکھنا۔ الشیء۔ چھپانا۔
 غافل کرنا۔ العجین۔
 آٹے میں غیر دینا۔ الامر۔
 کسی امر کو پوشیدہ رکھنا۔
 چھپانا۔ الارض۔ زمین میں
 گھنی جھاڑی کا بہت ہونا۔
 الشیء۔ کسی کو کسی چیز کا تحفہ
 دینا۔
 تَخْمَرَتْ وَانْحَمَرَّت۔ المرأة۔
 عورت کا دوپٹہ اوڑھنا۔
 داخِمْ العجین۔ آٹے کا خمیر
 بوجانا۔ اخْمَر العَصِیر۔
 رس کا شراب میں جانا۔
 الخمر والخمرۃ۔ انگور کی شراب
 ہر نشہ آور شے۔
 الخمر۔ کینہ۔ دشمنی۔
 الخمر۔ لوگوں کی جماعت اور بھیڑ
 گھنی جھاڑی یا درخت۔ کینہ
 ہیں۔ تواری الصيد عنی
 فی الوادی۔ یعنی شکار وادی
 کی گھنی جھاڑی کی اوٹ میں مجھ
 سے چھپ گیا۔
 الخمر۔ زیادہ گھنی جھاڑیوں والی
 جگہ۔ رجل خمر۔ مست
 و مدبوش آدمی۔
 الخمر۔ شراب کی وجہ سے دروسر
 ۱۔ والخمر والخمرۃ، لوگوں کی
 کثرت اور ان کی بھیڑ۔
 الخمر۔ اوڑھنی۔ دوپٹہ۔ پردہ۔
 جر اخمرہ۔ و خمر و خمر
 کہا جاتا ہے۔ "ما شتم خماراً"
 یعنی تجھ کو کون سی چیز ایسی پیش

آئی جس نے تیری حالت کو
 پلٹ دیا۔
 الخمرۃ والخمرۃ۔ خمیر۔
 الخمر۔ خمیری روٹی۔
 الخمرۃ۔ خمیر کرنے کا برتن۔ شراب
 کی تلچھٹ۔ شراب کی تکلیف،
 اور اس کے باعث دروسر۔
 جھوٹی پٹائی۔ خمرۃ۔
 اللبن۔ وہ چیز جس کو دودھ
 میں ڈالنے سے جلد جم جائے۔
 جر۔ الخمر۔ (والخمرۃ)
 والخمرۃ۔ مست کر دینے والی اچھی
 خوشبو۔
 الخمری۔ من الالوان۔ سرخی مائل
 سیاہ۔
 الخمر۔ شراب فروش۔ والخمرۃ۔
 شراب بیچنے کی جگہ۔
 الخمر والمستخمر۔ بہت شراب
 پینے والا۔
 المخموس۔ شراب سے مست و
 مدبوش۔
 خمس (نض) خمسا۔ القوم۔
 پانچواں ہونا۔ قوم کے مال کا
 پانچواں حصہ لینا۔ المال۔
 مال کا پانچواں حصہ لینا۔
 الحبل۔ رسی کو پانچ لڑیوں
 سے بٹنا۔
 خمس۔ الشیء۔ پانچ رکن والا
 بتانا۔ اور اسی سے ہے۔
 تخمیس۔ شعر کی اصطلاح میں
 یعنی دو مصرعوں والے شعر میں
 تین اور مصرعوں کا اضافہ کر کے
 اس کو پانچ بند کا کرنا۔
 انخمس۔ القوم۔ پانچ ہونا۔
 الخمس والخمس۔ پانچواں حصہ۔

جر۔ انخماس۔ کہتے ہیں "ضرب
 انخماساً لاسدائیس" یعنی اس
 نے مکرو فریب میں کوشش کی۔
 خماس و خمیس۔ پانچ۔ پانچ۔
 (خمسة خمسة، تھے معدول)
 کہتے ہیں "جاؤ انخماس و
 خمیس" وہ پانچ پانچ ہو کر
 آئے۔ یہ مذکر و مؤنث کے لیے
 یکساں مستعمل ہے۔
 انخماسی۔ پانچ حرفوں والا۔ کہا
 جاتا ہے "جاریۃ خماسیۃ"
 پانچ سالہ لڑکی۔
 الخمسة۔ پانچ (مذکر کے لیے)
 مؤنث کے لیے خمیس۔
 خمسون۔ پچاس۔
 الخمیس۔ ویوم الخمیس۔ جمعرات
 جر۔ اخمسہ و اخمساء۔
 الخمیس۔ شکر کو بھی کہتے ہیں۔
 کیونکہ وہ بھی پانچ حصوں پر تقسیم
 ہوتا ہے۔ دمجر خمیس و
 مخموس، پانچ گز کا نیزہ۔
 المخمس۔ پانچ ارکان والا۔ بوجھ
 اٹھانے کے لیے ایک لوہے کا
 اوزار۔
 خمش (نض) خمشا و خموشا۔
 الوجہ۔ چہرہ پر خراش لگانا۔
 تمہر مارنا۔
 خمشہ۔ زیادہ خراش لگانا۔
 الخمش۔ مص۔ خراش۔ جر خموش۔
 الخماشہ۔ ہلکا زخم۔ ایسا زخم جس
 پر بدلہ مقرر نہ ہو۔ جر۔ خماشات
 الخمش۔ مجھ۔
 خمص (نض) خمصا و خموصا۔
 والخمص۔ الجرح۔ زخم کا
 ورم جاتا رہنا۔





خَمَصَة - خَمَصَا وَخُمُوصَا وَ
خَمَصَة - الْجُوعُ - يَهْوُكُ
کاسی کو دبلے پیٹ والا کر دینا۔
ر - وَخَمَصَ دَسَ، خَمَصَا
وخموصا و مخمصه۔
البطن - پیٹ کا خالی ہونا۔
دُبلّا ہونا۔
تَخَامَصَ - اللیل - رات کی
اندھیری کا کم ہونا۔
بچن - ایک طرف ہونا۔
الْمَخْمَصَة - بھوک۔
خَبِیض وَخَمَصَان وَخَمَصَان
الحشی - خالی پیٹ۔ دُبلے
پیٹ والا۔ ج - خَمَاص -
مؤنث۔ خَبِیضَة وَخَمَصَانَة
وَخَمَصَانَة - ج - خَمَاص
خَمَصَانَات وَخَمَصَانَات -
الخَبِیضَة - الخبیض کا مؤنث
سیاہ کنارے والا جڑ جو عورت
و مرد پنتے ہیں۔ ج - خَمَائِص -
أَخْمَص - الْقَدَم - تلوے کا وہ
حصہ جو زمین سے نکلے اس سے
پورا قدم بھی مراد لیتے ہیں۔
أخمص البدن - جسم کا
درمیانی حصہ۔ ج - أَخَامِص -
الْمُخْمَصَة - م - پیٹ کا کھانے
سے خالی ہونا۔
خَبَطَ (ن) خَبَطَا وَخُوطَا - وَ
خَبَطَ (س) خَبَطَا - الْخَمْرُ
او اللبن - شراب یا دودھ کا
نوشہ والا ہونا۔ بو میں تغیر آ
جانا۔ صفت (خَبَطَ وَخَامِطَ)
خبط الرجل - تکبر کرنا۔
غضبناک ہونا۔ خَبَطَ (ض)
اللحم - گوشت کو بھوننا۔

صفت منقول - (خبیط)
خَبِیطَ (ن ض) خَبَطَا - اللبن
دودھ کو کسی برتن میں ڈالنا۔
تَخَمَطَ - تکبر کرنا۔ غضبناک ہونا۔
البحر - سمندر کا موجزن ہونا۔
الفحل - اونٹ کا بلبلا نا۔
الْخَطَط - مص - سبر کھٹی یا کرٹوی
چیز ہر درخت کا پھوڑا پھل - ہر
بے کانٹے والا درخت۔
الْخَمِطَة وَالْخَمِطَة - من اللبن
دودھ کی بو - الْخَمِطَات -
بھوننے والا۔
خَبَعَت (ن) خَمَعَا وَخُمُوعَا -
وَخَمَعَانَا - الصَّبْع - بَجْوَا
نگڑی چال سے چلنا۔
الْخَامِغَة - بَجْوَا - ج - خَوَامِج -
الْخَمَاع - نگڑا پن۔
الخَمع - بیڑیا۔ ج - أَخْمَاع -
الْخَمِج وَ الْخُمُوع - بدکار عورت
خَمَلَ (ن) خُمُولًا - ذَكَرًا
او صَوْتُهُ - ذکر یا آواز کا پوشیدہ
یا کمزور ہونا۔
خَمَلَ (ن) خَمَلًا - البسر کھجوروں
کو نرم کرنے کے لیے گڑے وغیرہ
ڈالنا۔ کہتے ہیں - "خَمَلُهُ
اللہ" - اللہ تعالیٰ اس کو
ہلاکت میں ڈالے۔
خَمَلَ جوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہونا۔
أَخْمَلَهُ - گنم کرنا - أَخْمَلَتْ
الأرض - زمین کا بہت گنجان
درختوں والی ہونا۔
أَخْمَلَ - القَطِيفَة - چادر کو روئیں
دار بنانا۔
أَخْمَلَتْ - الماشیة جانوروں
کا اچھی گھاس والی زمین میں جھرتا۔

الْخَامِل - فا - من الرجال۔
گنم آدمی۔ غیر مشہور شخص۔ بے
قدر۔ ج - خَمَلَ۔
الْخَمَلَ - کپڑے کا رواں -
وَالْخَمَالَة وَالْخَمِيلَة (شتر مرغ
کے پر۔
الْخَمْلَة - چادر۔ پشم دار کپڑا۔
الْخَمْلَة - راز۔ پوشیدہ برائیاں
پوشیدہ عادتیں۔ ج - خَمَلَات -
الْخَمَال - جوڑوں کا درد۔ د -
الْخَمَالِ وَ الْخَمَلِ وَ الْخَمَلِ مخلص
دوست۔
الْخَمِيل - روئیں دار کپڑا۔ نرم خوراک
گھرا بادل۔ واحد - (خَمِيلَة)
الْخَمِيلَة - چادر۔ بہت گنجان، اور
گھنا درخت۔ بہت درختوں والی
جگہ۔ پست و نشیبی زمین۔ ج -
خَمَائِل -
الْمُخْمَل - پشم دار کپڑا۔ روئیں دار
کپڑا۔
خَمَنَ (ن ض) خَمَنًا وَخَمَنَ -
الشیء - تنخینہ لگانا یا قیمت لگانا
اندازہ کرنا۔
الْخَامِن - گنم۔ غیر مشہور۔
الْخَمَن - بدبو۔
الْخَمَان - کمزور نیزہ۔ گھٹیا درجہ کا
آدمی۔ کہتے ہیں - "ھم خمان
الناس" وہ کم درجہ کے لوگ
ہیں۔
الْخَمَانَة - نیزہ کی کمزور چھڑ۔
خَمَنَ (ض) خَمِينًا - ناک میں رونا
یا بولنا۔ یا ہنسنا۔ صفت (أَخَمَنَ)
خَمَنَ (ن) خَمَنًا - المال - لینا۔
قوم کی حرم میں داخل ہونا۔
أَخَمَسَ - عقل چھین لینا۔ صفت

(مَخْنُون) قیاس کی رو سے
مَخْنَع ہونا چاہیے تھا۔

اسْتَخْنَتِ - البیئر کنویں کا بدبودار
ہونا۔

الْمَخْنَةُ - گنگناہٹ۔ ناک کی آواز۔
الْمَخْنَان - آسودگی۔ زندگی کا آرام۔
الْمَخْنَان وَالْمَخْنَان - اونٹوں کا
زکام۔ ناک کی بیماری۔ پرندوں
کے گلے کی بیماری۔

الْمَخْن - لمبا آدمی۔

الْمَخْنَةُ - گنگناہٹ۔ ناک کی
آواز۔ ناک۔ گھر کا درمیان۔
صحن۔ واضح راستہ۔ راستہ کا
آغاز۔ شروع۔ وادی کی تنگ
جگہ۔ کہتے ہیں "فلان مَخْنَةُ
لفلان" وہ چیز فلاں کے کھانے
کی ہے۔

خَنْب (س) خَنْبًا - زکام والا
ہونا۔ سنگڑانا۔ ہلاک ہونا۔ کمزور
ہونا۔

أَخْبَبَ - وَاخْتَبَبَ - ہلاک
ہونا۔ أَخْبَبَهُ - ہلاک کرنا۔
کمزور ہونا۔

تَخَبَّبَ - تکر سے ناک چڑھانا۔

الْخَنْب - ناک کی بیماری۔

الْخَنَاب - لمبا۔ بیوقوف۔

الْخَنَابَةُ - بُرْ اَنَاشَان - برائی۔

الْخَنَابَةُ - وَالْخَنَابَةُ - تکر۔

الْخَنَابَتَان - وَالْخَنَابَتَان - ناک
کے دونوں نکتے۔

خَوْنَت (س) خَنْتًا - الرجل۔

بیچڑا ہونا۔ زمانہ صفت ہونا۔

صفت۔ (خَنْت)۔

خَنْتَهُ (ض) خَنْتًا - ہنسی کرنا۔

ٹھٹھا کرنا۔ السقاء۔ مشک

کے منہ کو پھاڑ کر اس کو باہر کی جانب
موڑنا۔

تَخَنَّنَ - موڑنا۔ نرم کرنا۔ بیچڑا بنانا۔

أَخْنَتَ - دوہرا کرنا۔ لچکنا۔

تَخَنَّنَ دَاخَنَتَ - بیچڑا ہونا۔

خَنَات - مؤنث کا وصف ہے۔

اور صرف نر میں مستعمل ہوتا ہے۔

کہتے ہیں "يَا خَنَات! اے لچکنے

والی - خَنَاتُ الثوب و

أَخْنَاث - کپڑے کی تھیں۔ کہا

جاتا ہے "اطوا الثوب علی

خَنَات" کپڑے کو اس کی تہ پر

لیٹیو۔ واحد (خَنْت)

الْخَنْت - اخنث کا اسم۔ لچک

زمی۔

الْخَنْثِي - بیچڑا۔ ج۔ خَنَاتِي و

خَنَات -

الْمَخْنَات - بہت لچکدار۔ نرم۔

کہتے ہیں "رجل مَخْنَات و

امراة مَخْنَات" ج۔

مَخَانِيث -

الْمَخْنَت - بیچڑا۔ ڈھیلے لچکدار

اعضاء والا۔

الْخَنْجَر وَالْخَنْجَر - چھری یا بڑی

چھری۔ کٹار۔

خَنْعَن - خَنْعَنَةُ - ناک میں بولنا۔

— فی کلامہ۔ غیر واضح

کلام کرنا۔ خنخنانا۔

الْمُخْنَدِب - بدخلق۔

الْمُخْنَدِب - پرائی شراب۔

الْمُخْنَدِع - خیس۔

الْمُخْنَدِق - شہر پناہ کے ارد گرد

کھائی۔ ج۔ خَنْدَق - وَخْنَدَق

خَنْدَقَةُ - کھائی کھودنا۔

تَخَنَّدَ - بے شرم و دلیر ہونا۔

الْمُخْنَدِب - لمبا۔ سخت۔ پہاڑ کی اونچی

چوٹی۔ اچھا شاعر۔ بہادر۔ سخی۔

بگولہ۔ ج۔ خَنْدَقِيد -

الْمُخْنَدِع - خیس۔

خَنْز (س) خَنْزًا و خَنْزًا -

اللحم - گوشت کا بدبودار ہونا۔

صفت (خَنْز و خَنْز)

الْمُخْنَدِع - خَنْزًا و خَنْزًا -

تکر۔ — الخَنْزَوَان - پھر

نرسور

الْمُخْنَدِع - سور۔ ج۔ خَنْزِير -

— الخَنْزِير - گلے کی گلیاں

کنڈھ والا۔ — خَنْزِيرُ الْبَحْرِ

ایک قسم کی مچھلی۔ خَنْزِيرُ الْهِنْد

خرگوش سے مشابہ اور اس سے

قدرے چھوٹا و غدار جلد کا جانور۔

— خَنْزِيرُ الْبَيْت - کنویں سے

پانی نکالنے کی چسبھی۔

الْمُخْنَدِع - موٹائی۔ پتھر توڑ

ہتھوڑا۔

خَنْس (ن ض) خَنْسًا و خَنْسًا -

— و خَنْسًا - عنہ۔ پیچھے

ہٹنا۔ ایک طرف ہونا۔ سکرنا۔

کہتے ہیں "خَنْس الطریق عَنَّا"

یعنی ہم نے راستہ کو طے کر کے

اس کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔

بین اصحابہ۔ اپنے ساتھیوں

سے چھینا۔

خَنْسَهُ (ن ض) خَنْسًا - پیچھے

کرنا۔ ابھامہ۔ انگوٹھے کو سمیٹنا۔

کہتے ہیں "اشار باسبع و

خَنْس ابھامہ" یعنی اس نے

انگوٹھے کو سمیٹ کر چار انگلیوں

سے اشارہ کیا۔ القول۔ بری

بات کہنا۔ الشئ عنہ۔

چھپانا۔ فلائنا و بہ۔ غائب کرنا۔ چھپانا۔ صفت (خالس) ج۔ خَنَس۔
 خَنِس (س) خَنَسًا۔ چھٹی اور سرے سے اچھی ہوئی ناک والا ہونا۔ صفت (خالس) مؤنث خَنَسَاء۔ ج۔ خَنَس۔ اسم۔ الخَنَس۔
 آخَنَسَ۔ عنہ۔ روکنا۔ پیچھ کرنا۔ کہا جاتا ہے "آخَنَسْتُ عنہ بعض حقہ" میں نے اس کا کچھ حق روک لیا۔ اوعار الطریق کھٹن راستوں کو عبور کر جانا۔
 تَخَنَسَ۔ بہ۔ چھپانا۔ غائب کرنا۔ الخَنَس۔ عنہ۔ پیچھ ہٹنا۔ سکرنا۔ الخَنَس۔ برہوں کے رہنے کی جگہ۔ برنیاں۔ نیل گائے۔
 الخَنَس۔ سب ستارے۔ یا صرف سیارے۔ بعض کے نزدیک زحل مشتری مریخ زہرہ۔ عطارد۔ الخَنَسَاء۔ نیل گائے۔ ایک مشہور شاعرہ کا لقب۔
 الخَنَس والَخَنُوس۔ شیر۔ الخَناس۔ شیطان۔
 الخَنَيس۔ فریبی۔ حیلہ باز۔ الخَنَسِر۔ لئیم۔
 الخَنَسِر والَخَنَسِرِی۔ نقصان میں پڑنے والا۔ ج۔ خَنَسِرَہ۔ الخَنَسَاس۔ ایک پودا جس کو ہنس راج کہتے ہیں۔
 الخَنُوس۔ مؤنث۔ الخَنُوصَہ۔ سوڑ کا بچہ۔ ج۔ خَنَابِص۔ الخَبُوص والَخَنَصِر۔ چھنگلیا۔ ج۔ خَنَاصِر۔ کہا جاتا ہے۔



”هذا امر تقعد عليه الخَنَاصِر“ یعنی قابل اعتبار معاملہ ہے۔
 الخَنَطَل۔ بلی۔ مصیبت۔ قطار۔ ٹڈی دل۔
 خَنَعَ (ف) خَنُوعًا۔ لہ و الیہ۔ عاجزی و فروتنی کرنا۔ الی اللہ۔ بغیر عمل کے تضرع و زاری کرنا۔ بفلاں کسی کے ساتھ بیوفائی کرنا۔ الی الامر السیء برائی کی طرف مائل ہونا۔
 خَنَعَ۔ کھاڑی سے کاٹنا۔ آخَنَعَتْ۔ الحاجة لہ و الیہ حاجت و ضرورت کا کسی کو ذیل و پست کر دینا۔
 الخَنَع۔ ذلت۔ الخَنَعۃ۔ غار۔ تمہ۔ الخَالِج والَخَنُوع۔ بدکار۔ شک پیدا کرنے والا۔ ج۔ خَنَعۃ و خَنَع۔
 خَنَفَ (ض) خَنَافًا۔ البعیر۔ اونٹ کا دوڑنے میں اپنا سر اپنے سوار کی طرف جھکانا۔ صفت (مذکر و مؤنث) (خَنُوف) ج۔ خَنَفَ (س) خَنُوفًا) غضبناک ہونا۔ الرجل بالنفہ تیکر کرنا۔ صفت (خَالَف) خَنَفَ (س) خَنَفًا۔ صدرہ او ظہرہ۔ سینہ یا پیٹھ کی ایک طرف کا دوسری جانب سے مخالف ہونا۔ صفت (آخَنَف) ج۔ خَنَف۔
 الخَنَف۔ نشانات۔ خَنَفَس۔ عن القوم۔ قوم سے بددل ہونا۔ اس سے کنارہ کش

رہنا۔ الخَنَفَس والِخَنَفَس والِخَنَفَس والِخَنَفَسَاء۔ ج۔ خَنَفَس۔ گبریلار۔ ج۔ خَنَفَس۔ الخَنَافِس۔ شیر۔
 خَنَقَ (ن) خَنَقًا و خَنَقًا و خَنَقَہ تَخْنِيقًا۔ گلا گھونٹنا۔ کہتے ہیں "خَنَقَہ العبرة" اسے رونے میں پھندا لگ گیا۔ خَنَقَ الاناء۔ برتن بھرنا۔ خَنَقَ السراب الجبل۔ سراب کا پہاڑ کو تقریباً ڈھانپ لینا۔ خَنَقَ زید الاربعین۔ زید چالیس برس کے قریب پہنچ گیا۔
 اخْتَنَقَ۔ گلا گھٹنا۔ اخْتَنَقَ۔ اپنا گلا گھونٹنا۔ الخَنِيق والِخَنِيق۔ گلا گھونٹنا ہوا۔ الخَنَاق۔ ایک بیماری کا نام جس میں سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ الخَنَاقِیہ۔ پرندوں اور گھوڑوں کے حلق میں پیدا ہونے والی بیماری۔ الخَنَاق۔ وہ رسی وغیرہ جس سے گلا گھونٹا جائے۔ گردن۔ کہا جاتا ہے "آخَذَ الخَنَاقَہ" اس نے اس کو گردن سے پکڑ لیا۔ الخَرِاق۔ فا۔ تنگ راستہ۔ گلی۔ کوچہ۔ خَانِق الذئب خَانِق التمر و خَانِق الکلب مختلف نباتات کے نام ہیں۔ الخَنَاقی۔ وہ جس کی عادت گلا گھونٹنے کی ہو۔
 المَخْنَقۃ۔ مار۔ گلوبندر۔ گلا گھونٹنے کی چیز۔ ج۔ فَخَانِق۔ و فَخَانِیق۔ المَخْتَق۔ مفع۔ گلا گھونٹنے میں

رسمی کی جگہ۔ گردن۔ کہتے ہیں۔
”غلام مُخْتَنَقُ الْخَصْرِ“ پتلی کمر
والا لڑکا۔

المُخْتَنَقِ۔

خَتَانَدَن، خُتُوًا وَخَفَى (دس) خَفَى
وَ اخَفَى۔ علیہ فی الکلام

کسی کے ساتھ فحش کلامی سے
پیش آنا۔ اخفی الجواد۔
ٹڈی کا بہت انڈے دینا۔
المرعی۔ چراگاہ کا بہت۔

گھاس والی ہونا۔ اخفی
علیہ الدھو۔ زمانہ کا دراز ہو
جانا۔ ہلاک کرنا بظلم کرنا۔ بیوفائی
کرنا۔ کہتے ہیں۔ ”اخفی بہ“
اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اس

کے ساتھ بد عہدی کی۔
الخَفَى۔ بد زبانی۔ فحش گوئی۔
خَفَى الدھیر۔ مضائب زمانہ
واحد۔ (خَفَاة)

خَاب۔ دن۔ خَوْبًا۔ غریب ہونا۔
محتاج ہونا۔

الخَوْبَہ۔ بھوک۔ وہ زمین جس پر
چارہ نہ ہو۔ یا وہ زمین جس پر
بارش نہ برسی ہو۔

خَاتَ دَن، خُونًا وَخَوْتَانًا۔

الرجل۔ عمر رسیدہ ہونا۔ نقص عہد
کرنا۔ وعدہ خلافی کرنا۔ المال۔

مال کو کم کرنا۔ د۔ وَاخْتَاتِ،
وَ اخْتَاتِ، البازی علی

الصید۔ باز کا شکار پر جھپٹنا۔
خَاتَ دَن، خَوَاتًا۔ العقاب۔

عقاب کا پروں سے سر بہا ہٹ
کی آواز نکالنا۔

تَخَوَّتَ وَ اخْتَاتَ۔ المال۔ کم
کرنا۔ الشیء۔ کسی شے کو

اچک لینا۔ حدیث القوم۔
بات سن کر یاد رکھنا۔ الشاة۔
بکری کو دھوکے سے چرائینا۔
کہا جاتا ہے ”ہم یخنتا تون
اللیل“ وہ رات کو راہزنی کرتے
ہیں۔

الخَوَات۔ بہادر آدمی۔

تَخَوْتُ دَس، خَوْتًا۔ البطن
پیٹ کا ڈھیلا ہونا۔ کھانے سے

بھرا ہونا۔ صفت (اَخْوَتْ)
مؤنث (خَوْتَاء)

آخَاخ۔ آخَاخَةٌ۔ العشب۔ کم
ہونا۔ پوشیدہ ہونا۔

الخَوَخ۔ شفتالو۔ آرو۔ واحد
(خَوَخَةٌ)

الخَوَخَات۔ روزن خانہ۔ روشن دان
بڑے دروازہ کی کھڑکی۔

الخَوَخَاءُ وَ الخَوَخَاتُ وَ الخَوَخَاءَةُ
احتمق۔ بے وقوف۔

تَخَوَّد۔ الرجل۔ تیز چلنا۔ من
الطعام شیبًا۔ کچھ کھانا پانا۔

تَخَوَّد۔ الغصن۔ شاخ کا جھکنا۔
تَخَاوَذَ تَخَاوَذَةً۔ الی الشیء۔

ایک کے بعد دوسرے کا آنا۔
کہتے ہیں ”خاوذونا الی الماء“

یعنی ہم تولوٹ رہے تھے۔ اور
وہ جارہے تھے۔ خاوذہ

کسی کی زیارت کے لیے بار بار آنا
۔ خاوذتہ الحقی۔ بخارنے

اس کو بے وقت آن لیا۔
خاوذَ عنہ کسی سے علیحدہ

ہونا۔ کنارہ کش ہونا۔
تَخَاوَذَ۔ القوم۔ آپس میں

عہد دہیمان کرنا۔
تَخَوَّذَ۔ برابر ملتے رہنا۔ کہتے ہیں۔

”تَخَوَّذْنَا بِالزَّيَارَةِ“۔ اس
نے ہم سے بار بار ملاقات کی۔
الخَوَّذَةُ۔ خود۔ جہ۔ خَوَّذَ۔
خَوَّذَانُ۔ الناس۔ لوگوں کے
خدمت گار۔

يَخَوَّذُ۔ الحشی۔ بخار کا معلوم
وقت پر آنا۔

خَارِدَن، خَوَارًا۔ البقرہ۔
گائے کا ڈکارنا۔ آواز کرنا۔

خَوَّوْرًا، وَ خَوَّوْرَ دَس، تَخَوَّرَا
مکڑور ہونا۔ بست ہونا۔ ٹوٹنا۔

قَوَّةُ المریض۔ بیمار کی طاقت
گھٹ جانا۔

تَخَوَّرَ۔ مکڑور ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔
الارضی۔ کثرت بارش سے

زمین کی مٹی کا نرم ہو جانا۔
الرجل۔ مکڑوری کی طرف

نسبت کرنا۔
آخَارَہ۔ موڑنا۔ جھکانا۔ مائل کرنا۔

کہتے ہیں۔ ”اخرننا الابل
الی مواضع کذا“۔ ہم نے

اونٹوں کو فلاں مقام کی طرف
موڑ دیا۔

تَخَاوَرَتَ۔ الشیران۔ بیلوں کا
ایک دوسرے پر آواز نکالنا۔

استخَارَہ۔ کسی کی طرف مہربانی کا
خواہش مند ہونا۔ المنزل۔

منزل کو صاف کرنا۔
الخوس۔ دو بلند مقامات کے درمیان

پست و نشیبی قطعہ زمین۔
الخواس۔ مص۔ گائے کی آواز۔

بکریوں، بھروں۔ اور تیر کی
آواز پر بھی اس کا اطلاق ہوتا

ہے۔
الخَوَار۔ بزدل۔ مکڑور۔ ڈھیلا۔ بست

خ

میں مشغول ہوتا۔ الجواد فی المیدان۔ گھوڑے کا میدان میں کلیلیں کرنا۔ بالفوس۔ گھوڑے کو پانی پر لانا۔ بالسيف۔ تلوار کو زخم میں دھلانا۔ کہتے ہیں۔ "انہ یخوض المنايا" وہ اپنے آپ کو خطرات میں بھونکتا ہے۔ "وهو یخوض اللیل" وہ رات کو ہولناکیوں سے ٹھہر ہو کر گھس پڑتا ہے۔

خَوْصٌ۔ الماء۔ پانی میں گھسنا خَاوَصٌ خَاوَصٌ خَاوَصَةٌ۔ الفرس۔ گھوڑے کو پانی میں داخل کرنا۔ اخاض الماء۔ جانوروں کو پانی میں داخل کرنا۔

تَخَوَّصٌ۔ پانی میں بتکلف گھسنا۔ اخْتَاَصَ۔ الماء۔ پانی میں داخل ہونا۔ گھسنا۔

تَخَاوَصَ۔ القوم فی الحدیث لوگوں کا باہم گفتگو میں مشغول ہونا الخوضۃ۔ خاص کا اسم مرۃ۔ موتی۔

الخواص۔ بہت گھسنے والا۔ المَخَاَصَةُ۔ پانی میں گھسنے کی جگہ۔ ج۔ مَخَاوِصٌ وَمَخَاضٌ وَمَخَاصِنٌ۔

تَخَوَّطَ۔ وقتاً فوقتاً آنا۔ الخوط۔ نرم ٹہنی۔ یا ہر شاخ۔ ج۔ خیطان

خَافَ يَخَافُ خَوْفًا وَخَيْفًا وَخَافَةً وَخَيْفَةً وَتَخَوَّفَ ڈرنا۔ خوف زدہ ہونا۔ گھبرانا محتاط ہونا۔ کہتے ہیں۔ "خافه وخاف منه وخاف عليه"

آنکھ سفید ہو اور ایک سیاہ۔ خَوْصٌ۔ چلے شریف لوگوں کا اکرام کرنا اور پھر رذیلوں کا۔ الناج۔ تاج کو سونے کے پتروں سے آراستہ کرنا۔ ۵ الشیب۔ کسی میں بڑھاپے کا ظہور ہونا۔ کہتے ہیں۔ "خَوْصٌ مَا اعطاك" یعنی وہ جو کچھ تم کو دے لے لو۔ اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔

خَاوَصٌ وَتَخَاوَصَ۔ نیم واشدہ آنکھوں سے دیکھنا۔ النجوم ستاروں کا مائل بغروب ہونا۔ خَاوَصَةٌ خَاوَصَةٌ وَخَاوَصَ البیع۔ بیچنے میں مقابلہ کرنا۔

أَخَوَصَ۔ النخل۔ درخت خرما کا پتے نکالنا۔ تَخَوَّصَ۔ الشیء۔ تھوڑی ہونے پر بھی لے لینا۔ العطیۃ۔ تھوڑا تھوڑا کر کے لینا۔

الخواص۔ کھجور کے پتوں کو فروخت کرنے والا۔ اس عمل کو۔ الخیاصۃ، کہتے ہیں۔ الخوص۔ کھجور کے پتے۔ واحد (خَوْصَةٌ)

الخوصاء۔ گرم ہوا۔ کہتے ہیں۔ "خرجوا فی الظہیرۃ الخوصاء" یعنی وہ دوپہر کی سخت گرمی میں نکلے۔

خَاَصٌ (ن) خَوْصًا وَخِيَاَصًا۔ الماء۔ پانی میں گھسنا۔ داخل ہونا۔ الثباب۔ ملانا۔ الغمرات۔ سختیوں میں گھس پڑنا۔ فی الحدیث۔ گفتگو

خَاَصٌ (ن) خَوْصًا وَخِيَاَصًا۔ الماء۔ پانی میں گھسنا۔ داخل ہونا۔ الثباب۔ ملانا۔ الغمرات۔ سختیوں میں گھس پڑنا۔ فی الحدیث۔ گفتگو

فوس خَوَّار العنان۔ جلد تابع ہونے والا تیز رفتار گھوڑا۔

الخَوَّيِّ کا بن۔ ج۔ خواریتہ۔ (دخیل)

الخَوَّس۔ گرجا میں مذہبی خادموں کے قیام کی جگہ۔

خَاَزَهُ (ن) خَوَّزًا۔ دشمنی کرنا۔ عداوت رکھنا۔

خَاسَتْ (ن) خَوْسًا۔ الجیفۃ۔ لاش کا سڑنا۔ البضاعۃ۔ سامان کا ناقابل فروخت ہونا۔

خَاسَ العہد وبالعہد۔ "خاس العہد وبالعہد" بدعہدی کرنا۔ بالوعد۔ وعدہ خلافی کرنا۔ بفلائی

کسی سے بے وفائی کرنا۔ خَوَّسَ۔ الشیء۔ کم کرنا۔

خَاشَهُ (ن) خَوَّشًا۔ بالروح نیزہ مارنا۔ الشیء۔ لینا۔

الرجل۔ کسی کا بیڑ میں گھس جانا۔

تَخَوَّشَ وَتَخَوَّشَ۔ الشیء۔ کم کرنا۔ و تخوش الرجل۔ آدمی کا فریب ہونے کے بعد

لاغر ہونا۔ الخوش۔ پلو۔

الخوشان۔ ایک قسم کی ترش گھاس واحد (خوشانۃ)

المتخوَّش والمُتَخَاوِش۔ بھریدار دبلے پیٹ والا۔

خَوْصٌ۔ یخوص (س) خَوْصًا آنکھ کا گڑھے میں بیٹھنا۔ صفت (اخوص، مؤنث) (خَوْصَاء) ج خَوْصٌ۔ الشاة۔ وہ سفید جسم والی بکری جس کی ایک



(خائف، ج۔ خَوْف و خَيْف و خَيْف و خَيْفُونَ
— تخوف الحق۔ حق مار لینا
— تخوف الشيء۔ آہستہ
آہستہ کم کرنا۔ تَخَوَّفَ
عليه شياءٌ۔ خوف کھانا۔
خَوَّفَهُ دُرَانًا۔ طریق
راستہ کو خوفزدہ بنانا۔
أَخَافَهُ إِخَافَةً۔ دُرَانًا —
احاف طریق۔ راستہ کا
گھبراہٹ میں ڈالنا۔
خَاوَقَهُ۔ ڈرنے میں کسی سے مقابلہ
کرنا۔ کہتے ہیں۔ "خَاوَقْتُهُ"
فخفته اخوفهُ" ڈرنے میں
میرا جب اس سے مقابلہ ہوا
تو میں اس پر غالب رہا۔ یعنی
میں اس سے زائد ڈرنے والا
ثابت ہوا۔
الخَوَاف۔ شور۔
الخَاف۔ بہت ڈرنے والا۔
الخَافَهُ۔ چڑے کا وہ لباس جو
شہد نکالنے والے پہنتے ہیں۔
وہ شے جس کے ذریعہ پھلوں کو
چنا جائے۔
الخَيْفَةُ۔ ڈرنے والے کی حالت۔
المَخَوْفُ۔ خوفناک۔ کہتے ہیں۔
"طريقٌ مخوفٌ" خوفناک
راستہ۔
خَوِقِي (س) خَوْقًا وَاِخْتِاقًا۔
وَتَخَوَّقَ۔ وسیع اور کشادہ ہونا۔
صفت (أَخْوَق) مؤنث
خَوْقَاء۔ ج۔ خَوْق۔
أَخَاقِي إِخَاقَةً۔ زمین میں پھرنا۔
خَوَّقَهُ۔ وسیع کرنا۔ کشادہ کرنا۔
تَخَوَّقَ۔ عنہ۔ دور ہونا۔

الْخَوَّقُ۔ کشادگی۔ کھلی۔
الْأَخْوَقُ۔ غارِش والا۔ کانٹا۔
"مَكَانٌ مَخَاقٍ" کشادہ جگہ۔
خَالٌ۔ يَخُولُ خَوْلًا وَخِيَالًا۔
— الموائشي۔ مویشی کی
نگہبانی کرنا۔ نگرانی کرنا۔ فَلَانٌ
على اهله۔ اپنے اہل کے
امور کا انتظام و انصرام کرنا۔
ان کے انتظام کے لیے کافی ہونا۔
خَالٌ يَخَالُ۔ خَوْلًا۔ تنہائی کے
بعد غلاموں والا ہونا۔
خَوَّلَهُ۔ الشيء۔ عطا کرنا۔ بخشنا۔
یا مالک بنانا۔
أَخْوَلَ وَأَخْوَلَ۔ ماموں والا ہونا
أَخَالَ۔ فِيهِ خَالًا مِنْ الْخَيْرِ
وَأَخَالَ۔ فراست سے بھلائی
کا پتہ لگا لینا۔
تَخَوَّلَ۔ فِيهِ خَالًا مِنْ الْخَيْرِ
وَتَخَوَّلَ تَخَوَّلًا وَتَخَيَّلًا۔
بھلائی معلوم کرنا۔
تَخَوَّلَ۔ خَالًا۔ ماموں بنانا۔
— فَلَانًا۔ کسی کی نگہبانی
کرنا۔ دیکھ بھال رکھنا۔
اسْتَخْوَلَهُم۔ نوکر رکھنا۔ خادم
بنانا۔ اسْتَخْوَلَ وَاسْتَخَالَ
فِيهِم۔ ماموں بنانا۔
الْخَوْلُ "خولي" کی جمع۔ غلام
لونڈیاں۔ لفظ واحد ہے، جمع
کے معنی دیتا ہے۔ کبھی واحد
کے لیے (خائل) کا لفظ آتا ہے
الْخَالُ۔ ماموں۔ ج۔ أَخْوَالُ
وَأَخْوَلَهُ وَخَوْلُ وَخَوْلُ
وَوُؤْدَةٌ۔
الْخَالَةُ۔ خالہ۔ ج۔ خَالَاتُ
کہتے ہیں۔ "ہما ابنا خالۃ"

وہ دونوں ایک دوسرے کی خالہ
کے بیٹے ہیں۔
الْخَالُ۔ خیر کا نشان۔ فوج کا جھنڈا۔
چیز کا مالک۔ کہتے ہیں۔ "انا خال
هذا الفرس" میں اس گھوڑے
کا مالک ہوں۔
الْخَوْدَةُ۔ ماموں ہونے کا رشتہ۔
الْخَوْلَى۔ مال کا انتظام کرنے والا۔
ج۔ خَوْلُ۔
الْخَائِلُ۔ خا۔ الْخَوْلُ کا واحد
کہتے ہیں۔ "ہو خائل مال"۔
وہ مال کا بدرو منتظم ہے۔ کبھی
"خال مال"۔ بحذف المصنعة
بھی کہتے ہیں۔
الْخَوْلَةُ۔ ہرنی۔
الْأَخْوَلُ۔ بہت سے ماموں رکھنے
والا۔ رجلٌ مَخْوِلٌ وَمَخْوِلٌ
وَمُخَالٌ شریف ماموں والا۔
خَامَتُ دَن، خَوْمَاتَا۔ الارض۔
کسی جگہ کا ناموافق صحت ہونا۔
أَخَامَ۔ أَخَامَةً۔ الفرس
گھوڑے کا تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا
— الْحَامُ سَوَقِي كَهْرًا۔ ج
أَخْوَامُ۔
خَانَهُ دَن، خَوْنًا وَخِيَانَةً و
فِتْنَانَةً وَخَانَةً۔ فی کذا۔
امانت میں خیانت کرنا۔
خَانَهُ سَيْفَهُ۔ تلوار کا اچڑ
جانا۔ خَانَهُ الدِّهْرَ۔ زمانہ
کا کسی کی حالت کو فراخی سے تنگی میں
تبدیل کر دینا۔ خَانَتْهُ
رجلاہ۔ چلنے میں پاؤں کا کام نہ
دینا۔ نہ چل سکتا۔
خَانَ الدُّلُو الرِّشَاءُ۔ ڈول کی
رسی رسی کا ٹوٹ جانا۔

العہد۔ عہد توڑ ڈالنا۔ کہتے ہیں خانہ العہد اور الامانہ عہد میں پورا نہ اترنا یا امانت میں خیانت کرنا۔ صفت (خائن) ج۔ خَوَّان و خَانَه و خَوْنَه (خونگا) جسم میں ضعیف اور نظر میں کمزور ہونا۔

خَوْنَتہ۔ کسی کی طرف خیانت کی نسبت کرنا۔

خَوْنَه و خَوْن منہ و تَخَوْنَه آہستہ آہستہ کم ہونا۔ خَوْنَه و تَخَوْنَه نگہبانی کرنا۔ دیکھ بھال کرنا۔ اور اسی سے ہے۔ ”کانَت الحشی تَتَخَوْنَه“ اس کو بخار وقت پر آتا تھا۔ ”تَخَوْنَه الدهر“ زمانہ کا کسی کی آسودگی کو سختی سے بدل دینا۔

اِخْتَانَه خیانت کرنا۔ المال مال کو چرانا۔

اِسْتِخَانَه۔ خیانت کا ارادہ کرنا۔ الخَان۔ دکان۔ سرائے۔ ج۔ خانات (دخیل) ترکوں میں بادشاہ کا لقب۔

الخَائِنَة۔ الخَائِن کا مؤنث۔ الخَانَة۔ بہت خیانت کرنے والا۔ اس میں تاء مبالغہ کے لیے ہے۔ جس طرح ”راویۃ“ بہت روایت کرنے والا۔

الخَوَّان و الخَوَّان۔ دسترخوان۔ عام لوگ اس کو ”سُفْرَة“ کہتے ہیں۔ ج۔ آخُوْنَه و خَوْن الخَوْدُون و الخَوَّانَة بڑا خائن۔ الخَوَّانَة۔ بہت خیانت کرنے والا۔

تاء مبالغہ کے لیے ہے۔ بُرْسِن خَوْت الدار تَخَوَّ خَوًّا۔ منہم ہونا۔ النجوم۔ بغیر بارش ہوئے ستاروں کا غروب ہونا۔ الخَو۔ بھوک۔ کشادہ و فراخ وادی (والخَو، شہد۔ الخَوَة۔ فراخ زمین۔ خوی (رض) خَوَاء۔ البیت گھر کا کرنا۔ منہم ہونا۔ خالی ہونا۔ رائے۔ نکسیر کا خون زیادہ نکلنے سے سر کا خون سے خالی ہونا۔ (خوی و خَوَاء)۔ الرجل بھوکا ہونا۔ الزند۔ چقماق کا آگ نہ دینا۔ (خَیَا۔ النجوم۔ ستاروں کا بے بارش کے ہونا۔ غروب کے لیے جھکنا۔ (خَوی و خَوَايَة) الشیء۔ اچک لینا۔ خَوی (س) خَیَا و خَوِيَا و خَوَايَة۔ المكان۔ خالی ہونا۔ خَوی۔ تَخَوِيَة۔ البعیر اونٹ کا بیٹھنے میں پیٹ کو زمین سے اونچا رکھنا۔ الطائر پرندہ کا اڑنے میں دونوں پاؤں کو لٹکانا۔

آخَوی اِخْوَاء۔ الزند۔ چقماق کا آگ نہ دینا۔ النجوم ستاروں کا بے بارش کے ہونا۔ الرجل۔ بھوکا ہونا۔ ماعند فلان۔ کسی کے پاس سے سب کچھ لے لینا۔ و خَوْت)۔ الماشیۃ۔ مولشی کا بہت فرہ ہونا۔ اِخْتَوی۔ اختواء۔ بے عقل ہونا۔ البلد۔ شہر کو طے کر جانا۔

ماعند فلان۔ کسی سے سب کچھ لے لینا۔ الفرس۔ گھوڑے کی اگلی پچھلی ٹانگوں کے درمیان نیزہ مارنا۔ الاُخْوی۔ بے عقل۔ مؤنث خَیَاء و خَوِيَاء۔ الخَوی و الخَوَاء۔ خالی پیٹ ہونا۔ دو چیزوں کے درمیان خالی فضا۔ خَوَاءُ الفرس۔ گھوڑے کی اگلی پچھلی ٹانگوں کے درمیان کا فاصلہ۔ الخَوی۔ پست نرم زمین۔ الخَوی خالی پیٹ ہونا۔ خَاب (رض) خَیْبَة و تَخَیْب۔ طلب میں ناکام ہونا۔ امید ٹوٹنا۔ کہتے ہیں ”خَاب سعيہ“ اس کی کوشش ناکام رہی۔ خَیْبَة و آخَابَه۔ ناکام کرنا۔ محروم کرنا۔ قلاح (خَیَاب) آگ نہ دینے والی چقماق۔

المَخِیْبَة۔ ناکامی کا سبب و باعث خَات (رض) خَیْتَا و خَیَوْتَا۔ آواز کرنا خَار (رض) خَیْرَا۔ صاحب خیر ہونا۔

— الله لك في الامر۔ اس کام میں اللہ تمہارے لیے بہتری کرے۔

خَار (رض) خَیْرَة و خَیْرَة و خَیْرَا و خَیْرَا۔ الشیء علی غیرہ۔ ایک شے کو دوسری پر فضیلت دینا۔ برتری دینا۔ خَارَه۔ پسند کرنا۔ منتخب کرنا اور اسی سے ہے۔ ”اللہم خیر لی“ اے اللہ میرے لیے دونوں اموں میں سے بہتر انتخاب فرما۔ خَیْرَة و خَایِدَه۔ فی الامرین

و بین الامرین۔ دونوں امور میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دینا۔ ”و خایره فی العلم فخاره“ علم میں کسی سے سبقت لے جانا۔

تَخَيَّرَ واختاره۔ چن لینا۔ منتخب کرنا۔ ذخیرہ کرنا۔

استخار استخارۃ۔ بھلائی و خیر طلب کرنا۔ اللہ کسی کا خدا تعالیٰ سے دعا کرنا کہ بہتر کام اس کے حق میں پسند فرمائے۔

الخیر۔ ج۔ خیر۔ خیر۔ بھلائی چیز کا اپنے کمال کو پہنچنا۔ مال۔ ج۔ اختیار و خیال۔ بہت خیر والا۔ اور خیر۔ ”آخیر“ سے مخفف ہو کر اسم تفضیل کا میسر بن کر بھی آتا ہے۔ اس کی نوٹ خیرۃ۔ آتی ہے۔

خیر۔ النایس۔ سب مردوں سے بہتر۔ النساء۔ سب عورتوں سے بہتر۔

الخیر۔ شرافت۔ بزرگی۔ اصل ہیئت الخیرۃ۔ بہت خیر والی عورت۔ عمدہ چیز۔ ج۔ خیارات۔

الخیرۃ۔ من الشئ والقوم۔ افضل۔ اعلیٰ۔

الخیر۔ پسندیدگی۔ کہتے ہیں ”آنت بالخیر“ تم جو چاہو پسند کرو۔ خیارات الشئ۔ اعلیٰ چیز۔

الخیر۔ گڑھی۔ کھیر۔ واحد (خیارۃ)

خیار شبن۔ المتاس۔

الخیرۃ۔ ایک پھولدار نبات۔

الخیرۃ۔ عمدگی۔ برتری۔ سلطنت عثمانیہ کا ایک پرانا سک۔

الخیر۔ کریم۔ مؤنث (تخیرۃ)۔

الآخیر۔ زیادہ اچھا۔ مؤنث خیرۃ و خوری۔ ج۔ آخیر۔

الخیرۃ والخوری والخوری والخیرۃ۔ غیر میں مبالغہ کے معنی دیتے ہیں۔ رجل خیرۃ۔ بہت خیر والا آدمی۔

المختار۔ مس۔ مفع۔ کہتے ہیں ”آنت بالمختار“ یعنی جو چاہو پسند کرو۔

خاس (رض) خیساً۔ اللحم۔ گوشت کا بدبودار ہونا۔

البيع۔ سردبازی ہونا۔

الرجل۔ جھوٹ بولنا۔ ذیل ہونا یا کرنا۔ الرجل والدابة کسی آدمی یا جانور کو مطیع و تابع دار کرنا۔

خاس (رض) خیساً و خیساً۔ بالعهود۔ عمدگنی کرنا۔ بیوفائی کرنا۔ دغا کرنا۔ بالوعد۔ خلاف وعدگی کرنا۔

خیسۃ۔ سدھانا۔ رام کرنا۔

خیس الجمل۔ اونٹ پر سواری لے کر اس کو سدھانا۔ رام کرنا۔ روکنا۔

الخیس۔ غم۔ گمراہی۔ جھوٹ۔ خیر و بھلائی۔

الخیس۔ گنجان اور گھنا درخت۔ شیر کی جھاڑی۔ ج۔ آخیاں۔

الخیسۃ۔ شیر کی جگہ۔ ج۔ خیس۔

المخیس والمخیس۔ جانور کو سدھانے کی جگہ۔

خاش (رض) خیشاً۔ ما فی الوعاء۔ برتن کی چیز کو نکالنا۔

الخیش۔ کتان کا بُنا ہوا کھدرا کپڑا

ج۔ خیش و آخیاں۔ واحد (خیشۃ)۔ کمینہ آدمی۔

الخیش۔ کتان کھدرا کپڑا بچنے والا۔ خاص (رض) خیشاً۔ تھوڑا ہونا صفت (خایش)

خیش (اس) خیشاً۔ پھوٹی بڑی آنکھوں والا ہونا۔ صفت (آخیش)۔ مؤنث (خیشۃ)

الخیش۔ تھوڑی سی چیز۔ کہا جاتا ہے ”قلت۔ منہ خیشاً خایشاً“ میں نے اس سے تھوڑی سی چیز پائی۔

الخیشۃ۔ تھوڑی چیز۔ کہتے ہیں ”فی المرعی خیشی من العشب“ چراگاہ میں گھاس تھوڑی سی ہے۔

الخیشان۔ تھوڑا مال۔

خاط (رض) خیطاً۔ الثوب۔ کپڑا سینا۔ صفت فاعلی (خایط و خایط و خایط)۔ صفت مفعولی۔ (مخیط و مخیط)۔ الحیۃ سانپ کا زمین پر رنگنا اور اسی سے ہے ”هذا مخیط الحیۃ“ یہ سانپ کے رنگنے کی جگہ ہے۔

خاط الیہ خیطۃ۔ کسی پر ایک ہی دفعہ گذر جانا۔ یا تیزی سے گذر جانا۔

خیط۔ الشیب فی راسہ۔ سر میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا۔

تخیط۔ راسہ بالشیب۔ سر میں بڑھاپا شروع ہونا۔

اختاط و اختطی۔ الیہ۔ ایک ہی دفعہ گذرنا یا تیزی سے گذر جانا۔

الخیط۔ ڈورا۔ دھاگا۔ ج۔ خیطوط۔ و خیطوطۃ و آخیاط۔ من النعام او الجراد۔ شتر مرغ



کارپوڑ یا ٹڈی دل۔ جِ خِیطان
الْخِیْطُ الابِیض۔ صبح کی روشنی۔
الْخِیْطُ الاسود۔ رات کی
تاریکی۔

الْخِیْطُ مِنَ الرِّقَّة۔ حرام مغز۔
کتے ہیں ”جا حش عن خِیْطِ
رَقَبَتِهِ“ اس نے اپنے خون
سے مدافعت کی۔

خِیْطُ باطِل۔ ترمے۔ سوراخ کی
شعاع میں دکھائی دینے والے
ذرات۔

الْخِیْطُ وَالْخِیْطِی۔ من النعام
اوالجراد۔ بیشتر مرغ کارپوڑ
یا ٹڈیوں کا دل۔

الْخِیْاطَةُ۔ درزی کا پیشہ۔
الْخِیَاط۔ درزی۔

الْخِیَاطُ وَالْمَخِیْطُ۔ سوئی۔
خِیْفَ (س) خِیْفًا۔ ایک نیلی اور
دوسری سرگیں آنکھ والا ہونا۔

صفت (ا) خِیْفَ، مؤنث
خِیْفَاء۔ ج۔ خِیْفَ۔

خِیْفَ۔ عَنِ الْقِتَالِ۔ لڑائی سے
منہ موڑنا۔ الْقَوْمُ۔ کسی جگہ
اترنا۔ خِیْفَتِ الْمَرْأَةِ
باولادھا۔ اخیافی بھائیوں
کی ماں ہونا۔

تَخِیْفَ۔ الْوَأْنُ۔ مختلف رنگوں
والا ہونا۔

الْخِیْفَ۔ پہاڑ کے دامن میں اونچی
نیچی زمین۔ پانی بہنے کی جگہ سے
بلند جگہ۔ تھن کی کھال۔

الْخِیْفَةُ۔ چھری بشیر کی جھاڑی۔
الْخِیْفَاءُ۔ کشادہ تھنوں والی۔ ج۔
خِیْفَاوَاتٍ وَخِیْفَ۔

الْأَخِیَافُ۔ مختلف لوگ۔ کہتے ہیں

”ہم اخوة الخیاف او بنو
اخیاف“ ان کی ماں ایک ہے
اور باپ الگ الگ۔ ماں کی طرف
سے بھائی۔

الْخِیْفَانُ۔ لوگوں کی کثرت۔ رنگ
برنگ پروں والی ٹڈی۔ ایک
پھاڑی بوٹی۔ واحد (خِیْفَانَةُ)

خَالٌ۔ یَخَالُ خِیْلًا وَخِیْلًا
خَالًا وَخِیْلَةً وَخِیْلَةً
خِیْلَانًا وَخِیْلُولَةً۔ وَ
خِیْلَةً وَخِیْلَةً۔ الشَّيْءُ

خیال کرنا۔ گمان کرنا۔ اور مضارع
سے واحد متکلم کا صیغہ اِخَالَ
وَ اِخَالَ ہے۔ میں گمان کرتا ہوں۔

خِیْلٌ۔ تَخِیْلًا وَتَخِیْلًا۔ علیہ۔
تھمت لگانا۔ شک کرنا۔ و۔

تَخِیْلٌ تَخِیْلًا۔ السَّحَابُ
بادل کا گر جانا۔ چمکنا اور برسنے
کے قریب ہونا۔ فیہ الخیر

کسی میں بھلائی کے نشان معلوم
کرنا۔ عَنِ الْقَوْمِ۔ کمزور

اور بزدل ہونا۔

تَخِیْلٌ۔ اِیْہِ دَلْہِ اَنْہِ کَذَا
تصور ہونا۔ ایک چیز کو دہم سے
دوسری چیز خیال کرنا۔

خَايَلَهُ۔ فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔
خَايِلَتِ السَّحَابَةُ۔ بادل کا
بارش کی امید دلانا۔

أَخِيْلَتِ۔ السَّحَابُ بَادِلٌ کَا بَرَسَ
کے لیے تیار ہونا۔ الناقَةُ
اونٹنی کے تھنوں میں دودھ ہونا

(و۔ وَاخَالَ) الْقَوْمُ۔ اِیْہِ
بادل کو دیکھنا جس سے بارش
برسنے کی امید کی جائے (أَخِيْلٌ
وَ اِخْتَالَ۔) الْمَكَانُ بِالْمَنَاتِ۔

ہے۔

جگہ کا سبزہ سے برا بھرا ہونا۔
اِخَالَ عَلَیْہِ الشَّيْءُ۔ کسی شے
کا کسی پر مشتبہ و دشوار ہونا۔

تَخَيَّلَتِ۔ السَّحَابَةُ۔ بادل کا
بارش کے نشانات لے کر ظاہر
ہونا۔ الْوَجَلُ۔ تکبر کرنا۔

۔ لَہِ اَنْہِ کَذَا۔ شبہ ہونا
اور وہم ہونا کہ وہ ایسا ہے۔

فِیْہِ الْخِیْرُ۔ کسی میں بھلائی کے
نشانات معلوم کرنا۔ وَ فَرَّاسَتْ
سے معلوم کرنا۔ علیہ۔ پسند

کرنا اور فراسَتْ سے بھلائی کا پتہ
لگانا۔

تَخَالَ تَخَالًا وَ اِخْتَالَ۔ اِخْتِیَالًا
اکڑ کر چلنا۔ تکبر کرنا۔

اِسْتَخَالَ۔ السَّحَابَةُ۔ بادل
کو دیکھ کر اس کو برسنے والا خیال
کرنا۔

الْخَالَ۔ ضرور برسنے والا بادل۔ بجلی
تکبر بڑا پہاڑ۔ جھنڈا۔ نرم کپڑا۔
سخی آدمی۔ تکبر۔ گمان۔ وہم۔

بے بیوی والا۔ کمزور دل یا کمزور
جسم والا۔ چھوٹا ٹیلہ۔ گھوڑے کی
لگام۔ کفن۔ بدن کا تیل۔ ج۔

خِیْلَانٌ۔
الْخِیَالَةُ۔ مغرور عورت۔

الْخِیْلُ۔ مَص۔ گھوڑوں کا گروہ۔
ج۔ خِیُولٌ وَ اِخِیَالٌ۔ الْخِیْلُ

مجازاً سواروں کو بھی کہتے ہیں۔ کہا
جاتا ہے ”اِیْ بِخِیْلِهِ وَ رَجُلُهُ“
وہ سواروں اور پیادوں کو لے آیا

الْخِیْلَانُ۔ ایک سمندری جانور جس کا
نصف حصہ انسان کے مشابہہ
اور نصف مچھلی سے ملتا ہوا ہوتا

ہے۔



<p>— تخیمت الریح الطیبة بالثوب وفیه۔ کپڑے میں خوشبو کا بس جانا اور کپڑے کا مکنا۔</p> <p>الخیم۔ طبیعت۔ خصلت۔ تلوار کا جوہر۔</p> <p>الخام۔ وہ شے جس پر کاریگر کا ہاتھ نہ لگا ہو۔ مثلاً وہ الماس جو صیقل نہ ہوا ہو۔ وہ پتھر جس کو سنگ تراش نے نہ تراشا ہو وہ چمڑا جس کو دباغ نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ وہ کپڑا جس کو دھو بی نے نہ چھوا ہو۔ روئی کا بنا ہوا کپڑا۔ ج۔ اُخوام۔ الخامة۔ تروتازہ گھاس۔ ج خام وخامات۔</p> <p>الخیمۃ۔ ڈیرہ۔ ہر وہ گھر جو اینٹ پتھر مٹی وغیرہ سے نہ بنایا گیا ہو۔ ج۔ خیمہ وخیام وخیمات وخیم۔</p> <p>الخیام۔ اونٹ کی عماریاں ہودے۔</p> <p>الخیامہ۔ خیمہ میں رہنے والا۔ (۔) والخیمی، خیمہ فروخت کرنے والا۔ خیمہ بنانے والا۔ المُخیم۔ خیمہ لگانے کی جگہ۔</p>	<p>المخایل۔ من السحب۔ بارش کی امید دلانے والے بادل۔ اور اسی سے ہے۔ "ظہرت فیه مخایل" البحابة۔ اس میں شرافت کی نشانیاں نمایاں ہو گئیں۔ ارضٌ متخیلة و متخیله۔ کسی زمین کے پودوں کا اپنی مدت پر آ کر پھول لانا۔</p> <p>خام۔ یخیم خیمًا وخیمًا وخیمومًا وخیمومۃ وخیمًا وخیمومۃ کسی جگہ اقامت کرنا۔ عند بزول ہونا اور پیچھے لوٹنا۔ القوم فی القتال۔ جنگ میں کامیاب نہ ہونا۔ رجله۔ اٹھانا۔ خیم۔ خیمہ لگانا۔ خیمہ میں اقامت کرنا۔ بالمكان۔ اقامت کرنا — خیمت الکرمۃ۔ انگور کی بیل کا خیمہ کی طرح چھابانا۔ — خیمت البقر۔ گائے کا۔ اپنے تھان پر کھڑے رہنا۔ الریح فی الثوب۔ کپڑے میں خوشبو بسانا۔</p> <p>آخام آخامۃ وآخیم آخیامًا۔ الخیمۃ۔ خیمہ نصب کرنا۔ الفرش گھوڑے کا تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔ تخیم۔ المكان وبالمكان و فیه۔ کسی جگہ خیمہ نصب کرنا۔</p>	<p>الخیال۔ گمان۔ وہم۔ ج۔ اخيلة — والخیالة، خواب میں دکھائی دینے والی صورت شکل انسانی۔ خیال۔ دھوکا۔ یعنی کھیتوں میں نصب کی ہوئی وہ بنادنی انسانی شکل جس کو دیکھ کر جانور اور پرندے ڈریں۔ اور اس کو انسان سمجھیں۔</p> <p>الخائل۔ متکبر۔ ج۔ خاکۃ۔ المُخیلة والخیالیۃ۔ قوت خیالیہ۔</p> <p>الآخیل۔ مؤنث۔ خیلاء۔ ج خیل و اخایل و المخیل۔ المخیول۔ بدن پر تل رکھنے والا۔ الآخیل۔ ایک بدشگونی کا پرندہ۔</p> <p>الأخیل۔ متکبر۔ کہتے ہیں۔ "رجل أخیل"۔</p> <p>الخیال۔ سوار۔ گھوڑوں والا۔ ج۔ الخیلاء والخیلاء والخیلة۔ خود پسندی۔ غرور۔ المخیلة والمخیلة۔</p> <p>والمخیلة والمختالة۔ وہ بادل جس کے برسنے کی امید ہو۔ انہ لم یخیل الخیر۔ اس سے نیکی کی امید ہے وہ نیکی کر سکتا ہے۔ "کلامٌ مخیل"۔ مشکل کلام۔</p>
---	--	--

د

<p>الدَّأْبُ والدَّأَبُ۔ مص۔ عادت۔ شان۔</p> <p>الدَّابَّان۔ رات و دن۔ الدَّابَّ۔ تھکا ہوا۔</p> <p>دَاثَ (دَن) دَاثًا۔ بوجھل ہونا۔</p>	<p>جانور کو تیز ہانکنا۔ ۵۔ دھتکارنا ہرکانا۔</p> <p>أَدَّأَبَهُ إِذَا بَا۔ تھکانا۔ پیہم کوشش کا کسی کو حاجت مند و ضرورت مند بنانا۔ کسی کام کو ہمیشہ کرنا۔</p>	<p>دَاَبَّ (دَن) دَاَبَا وَدَاَبَا وَدَاَبَا۔ — فی العمل۔ کوشش و مشقت سے کسی کام کو برابر کرتے رہنا۔ صفت (دَاَبَّ وَدَاَبَا)۔ دَاَبَا وَدَاَبَا۔ الدابة</p>
---	--	---

— الثوب۔ کپڑے کا میلا ہونا۔
 — الثوب۔ کپڑے کو میلا کرنا۔
 الدُّثُّ۔ سخت کینہ۔
 الدِّانَاءُ۔ چھو کری۔ لونڈی۔ باندی۔
 ج۔ دَانٌ۔ ابن دَانَاءٍ۔ احمق
 دَا دَا۔ دَا دَا۔ دَا دَا۔ بہت تیز
 دوڑنا۔ فی اثرہ۔ کھوج
 لگانے کے لیے کسی کے پیچھے
 جانا۔ الشَّيْءُ۔ دھانپنا۔ حرکت
 دینا۔ سکون میں لانا۔ القوم
 بھیڑ کرنا۔ ہجوم کرنا۔
 تَدَا دَا۔ حرکت کرنا۔ ٹھہر جانا۔
 المدجور۔ پتھر کا ٹھکانا۔ القوم
 ہجوم کرنا۔ بھیڑ کرنا۔ عنہ۔
 مائل ہونا۔ جھکنا۔ فی مشیہ
 چال اور رفتار میں لاکھڑا نا۔
 عن فوسلہ۔ گھوڑے سے گر جانا
 الدَّادَا والدَّادَا والدَّادَا
 والدَّادَا۔ من الیالی
 سخت اندھیری رات۔ ج۔ الدَّادِی
 الدار صینی۔ دار چینی۔
 دَیْصُ دس۔ دَا صَا۔ اترنا۔
 البعیر۔ اونٹ کا فرہ ہونا۔
 پُر گوشت ہونا۔
 دَا ظَدَف، دَا ظَا۔ الاناء۔ برتن
 بھرننا۔ الرجل۔ پیٹ بھرے
 پر زبردستی کھلانا۔ غیظ وغضب میں
 لانا۔ کلا گھونٹنا۔ القوحتہ
 زخم کو دبا کر بخورنا۔
 دَا ظَدَف، دَا ظَا۔ موٹا ہونا۔
 دَا لَ دَف، دَا لَا دَا لَا دَا لَی
 سست چال سے چلنا۔ لہ
 دَا لَا دَا لَا دَا دَا دَا دَا
 دَا لَہ مَدَا لَہ۔ دھوکا دینا۔ تیز
 رفتاری میں مقابلہ کرنا۔

دَوَالِہ۔ لومڑی کا علم جنس ہے۔
 الدَّالُّ والدَّالُّ والدَّالُّ و
 الدَّالِّلَان۔ کید۔ بھیڑیا۔ نیولے
 سے مشابہ ایک جانور۔
 الدَّوْلُ مَصِیْبَت۔ ج۔ دَالِیل۔
 کتے ہیں۔ وَقَعَ الْقَوْمُ فِی
 دَوْلُولٍ۔ قوم ایک مصیبت و
 پریشانی میں پڑ گئی۔
 دَا مَدَف دَا مَا۔ الحائط۔ دیوار
 کو سہارا دینا۔ الرجل۔
 آدمی پر کود کر سوار ہونا۔
 تَدَا مَدَ۔ المَاءُ۔ پانی کا ڈھانپ لینا۔
 تَدَا مَتِ السَّمَاءُ۔ لگاتار برسنا۔
 تَدَا مَتَّ۔ علیہ الہجوم۔ او
 الامور۔ غموں یا کاموں کا کسی
 پر ہجوم کرنا۔
 الدَّام۔ مصل۔ ہر ڈھانپنے والی شے۔
 الدَّامَاءُ۔ سمندر
 دَا یِ دَا دُن، یَدَا یِ دَا دَا
 و دَا یَا۔ الذَّبُّ لِلصَّیْدِ
 بھیڑیے کا شکار کو دھوکا دینا۔
 فریب میں لانا۔
 الدَّامِ۔ سینہ کی پسلیوں کے ملنے کی
 جگہ۔ ج۔ دَا یَات۔
 ابن دَابَّہ۔ کوا۔
 الدَّایۃ۔ دانی۔ ج۔ دَا یَات۔
 دَبَّ دَص، دَبَّا و دَبَّیَا۔ سانپ
 کی طرح رینگنا یا بچہ کی طرح ہاتھ
 پیروں پر گھسٹنا۔ کتے ہیں۔ ہو
 اکذب مَن دَبَّ و دَرَجَ۔ وہ
 زندوں اور مَرُودوں سے زیادہ جھوٹا
 ہے۔ السَّقْمُ فِی الْجَسْمِ
 او البلی فی الثوب۔ بیماری کا
 جسم میں اور بوسیدگی کا کپڑے
 میں سرایت کر جانا۔ الجَدُولُ

نہر کا بہنا۔ کتے ہیں۔ دَبَّتْ
 عَقَارِبُہ۔ اس کی چٹخوریاں اور
 ریشہ و انیاں چل پڑیں۔
 آدَبٌ۔ الصبی۔ بچہ کو ہاتھ پیروں
 پر چلانا۔ الی ارضہ
 جد و لا۔ اپنی زمین کی طرف نہر
 بہانا۔ کتے ہیں۔ آدَبٌ البَرَادُ۔
 اس نے ملک کو انصاف سے بھر
 دیا۔ دھویدب علینا
 عَقَارِبُہ و یَحْرِش علینا
 آقاربہ۔ یعنی وہ ہم سے دشمنی کرتا
 ہے اور اذیت پہنچاتا ہے۔
 الدَّبُّ۔ ریچھ۔ ج۔ آدَبَابُ دَبَّہ۔
 مؤنث۔ دَبَّہ۔ الدَّبُّ الاکبر
 والدَّبُّ الاصغر۔ بنات النعش
 کبریٰ اور بنات النعش صغریٰ۔
 قطب شمالی کے قریب چند
 ستاروں سے ترکیب پا کر دو ریچھ
 کی سی صورتیں بن گئی ہیں۔ ایک
 جھوٹی اور ایک بڑی۔ تین ستارے
 نعش کے پایہ شرقی کے قریب
 ہیں اور نعش کے چار ستارے
 پلنگ کی صورت کے۔ یہ سب
 مل کر سات ستارے ہوتے ہیں۔
 یہ ساتوں قطب شمالی کے قریب
 ہیں اور سب کے سب قطب کے
 ارد گرد گھومتے ہیں۔ انھیں سات
 سیلیوں کا جھکا بھی کہتے ہیں۔
 کتے ہیں۔ ركب دَبَّ فَلَانٍ او
 دَبَّہ فَلَانٍ۔ اس نے فلال کا
 طریقہ اختیار کیا۔
 الدَّبَّہ۔ تیل وغیرہ کا برتن۔ بط کی
 شکل کی شیشہ کی بوتل۔ بہت
 ریتی جگہ۔ ج۔ دَبَاب۔ پھرہ کا
 رُواں۔ ج۔ دَبَّ۔ کتے ہیں۔



”لَيْسَ فِي الدَّارِ دُبِّي أَوْ دُبِّي“
گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا استعمال صرف نفی کی صورت میں ہوتا ہے۔

الدَّبَبُ - رواں بالوں کی کثرت۔
گائے کا پہلا نوزائیدہ بچہ۔
الدَّبَابُ - تیز رینگنے والا۔ وہ کمزور جو چلنے میں رینگے۔ مؤنث۔

الدَّبَابَةُ - ایک آلہ ہوتا تھا جس کو قلعہ کے محاصرہ میں استعمال کرتے تھے۔ آدمی اس میں داخل ہوتے اور اس کو قلعہ کی دیوار کے پاس رکھ دیا جاتا پھر اس کے اندر کے لوگ دیوار میں سرنگ لگاتے اور اس کو برماتے جہ۔ دَبَابَاتُ - الدَّبَابَةُ ٹینک یعنی مسلح جنگی موٹر

الدَّبِيبُ - مص - ہر رینگنے والا چھوٹا کیرا جو پاؤں میں کھیلتا رہتا ہے۔
الدَّبُوبُ والدَّبِيبُوبُ - چغل خور۔
گہرا غار۔ ہر موٹی چیز۔

الدَّابَّةُ - الداب کا مؤنث۔ ہر رینگنے والا جانور۔ سواری کا جانور۔ بار برداری کا جانور مذکر و مؤنث ہر دو کے لیے) اس میں تاء وحدت کی ہے جہ۔ دَوَابٌ - تصغیر (الدَّوَابَّةُ)

الدَّبَاءُ - کمزور واحد (دَبَاءَةٌ)
الدَّبَانُ - رواں بالوں کی کثرت۔
الدَّبْتُ - بہت بالوں والا۔ مؤنث۔
دَبَاءٌ - بہت بالوں والا اونٹ۔
المَدْبُ - جاری ہونے کی جگہ کہتے ہیں۔
مدب السیل و مدب النمل سیلاب کے بہنے کی جگہ اور چوٹیوں کے رینگنے کی جگہ۔ ارض مدْبَتہ وہ زمین جس میں رینگے بکثرت ہوں۔

دَبَاءُكَ (دَبَاءٌ) لاشی سے مارنا۔
الشيء - حرکت سے ٹھہرنا سکون پذیر ہونا۔

دَبَاءَهُ وَدَبَّأَ عَلَيْهِ - ڈھانکنا۔ چھپانا۔
دَبَّجَهُ (دَبَّجًا) دَبَّجًا دَبَّجَهُ - نقش کرنا۔ مزین کرنا۔ خوبصورت بنانا۔
الطيلسان - ریشمی کپڑا لگا کر زینت دینا۔

الدَّبَّاجُ - وہ کپڑا جس کا تانا بانا ریشم کا ہو جہ۔ دَبَّاجٌ وَدَبَّاجٌ -

واحد۔ دَبَّاجَةٌ - الدَّبَّاجَةُ چمڑے کہتے ہیں۔ ”فلان يصون دَبَّاجَتَهُ“ یعنی فلاں شخص اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ کہتے ہیں ”فلان يبذل دَبَّاجَتَهُ“ یعنی فلاں اپنی آبروریزی کرتا ہے۔

دَبَّاجَةُ الكتاب - کتاب کا دِبا چمڑے۔ الدَّبَّاجَتَانِ - ہر دو رخسارے۔ دَبَّاجَةُ الوجه - چہرہ کی جلد کا حسن۔

الدَّبَّاجُ - دِبا چ کپڑا بیچنے والا۔
المَدَّبَجُ - ریشمی کپڑے سے مزین کیا ہوا۔ بدشکل۔ ایک بدسینٹ آبی پرندہ کہ بَجَجَ - سر جھکانا اور پیٹھ پھیلانا۔
ذلیل ہونا۔ فی بیتہ۔ اپنے گھر میں جھے رہنا۔

دَبَّجَ - بمعنى دَبَّجَ -
دَبَّابٌ - دَبَّابَةٌ - الحافر علی الارض - کھریاٹاپ کا زمین پر پڑ کر آواز دینا۔

الدَّبَّابُ - ڈھول۔ طبل کو آواز کی مناسبت سے کہتے ہیں۔
جہ۔ دَبَّابِيْبُ -

دَبَّوْنٌ (دَبَّوْنٌ) دَبَّوْنٌ دَبَّوْنٌ -
النهار والصيلف - دن یا گرمی

کا ختم ہو جانا۔ الوجل - مرنا پیچھے پھرنا۔ بوڑھا ہونا۔
الدَّبَّاجُ - بوا کا پھوٹا رخ پر چلنا۔
(دَبَّوْنٌ) السهم والهدف تیر کا نشانہ سے ہٹ کر گزنا۔
الكتاب - کتاب کا نقل کرنا۔
بالشيء - لے جانا۔
کسی کے پیچھے یا بعد آنا۔
الحديث عن فلان - کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات نقل کرنا۔ بیان کرنا۔

دَبَّوْنٌ - پھوٹا ہوا لگنا۔
دَبَّوْنٌ (دَبَّوْنٌ) دَبَّوْنٌ - البعير - اونٹ کی بیٹھ میں کجاوہ کی وجہ سے زخم ہونا صفت۔ (دَبَّوْنٌ)

دَبَّوْنٌ - الامور - کسی امر میں سوچ بچا کرنا اور اس کے نتیجہ پر غور کرنا۔
اس پر توجہ کرنا اور انتظام کرنا۔
الحديث - کسی کی

بات نقل کرنا۔ علی ہلاکہ کسی کی ہلاکی کے لیے جیلہ سازی کرنا کوشش کرنا۔

دَبَّوْنٌ مُدَّابَرَةٌ وَدَبَّوْنٌ - مرنا۔
کسی سے دشمنی کرنا۔

أَدَبَرُ - البَحِيرُ - اونٹ کی پیٹھ میں زخم ہونا۔

أَدَبَرُ الْقَتَبِ - کجاوہ کا پیٹھ کو زخمی کر دینا۔
فلان - مرجان - پھوٹا ہوا میں داخل ہونا۔ غنہ - پیچھے پھرنا۔
ہ - پیچھے کرنا۔

أَدَبَرَتِ الدُّنْيَا - اقبال مندی کا ختم ہونا۔
الامور - ختم ہونا۔

تَدَبَّرَ - الامور - کسی امر کے نتائج پر غور و فکر کرنا۔

تَدَبَّرَ - القوم - آپس میں دشمنی رکھنا

آپس میں اختلاف کرنا اور ایک دوسرے سے تعلقات کو توڑ لینا۔
استدْبَرَة - پیچھ دینا۔ اختیار کرنا۔
جستجو کرنا۔ کھوج لگانا۔
الامر - خلاف امید نتیجہ برآمد ہونا۔

الدبر - مصیبت کی مکھیوں یا بطوں کا انہرہ۔ واحد - دُبْرَة ج۔ اَدْبُر و دُبُور - بہت مال۔ قوت۔ پہاڑ۔ سمندر میں جزیرہ نما قطعہ زمین جس پر جوار بھاٹا ہوتا ہو۔ کسی چیز کے پیچھے کہتے ہیں۔ "جَعَلَ كَلَامِي دُبْرًا اُذْنِي" اس نے میری بات سے غفلت برتی اور اس پر توجہ نہیں دی۔

الدبر - بمعنی الدبر - بہت مال یہ مفرد و جمع کے لیے یکساں مستعمل ہے۔ مثلاً کہتے ہیں "مال دُبْرٍ و اَمْوَالٍ دُبْرٍ"۔

الدبر و الدبر - ہر چیز کا پچھلا حصہ۔ ج۔ اَدْبَار - دُبْرُ الصَّلَاة - نماز کا آخر۔ کہتے ہیں "جَاءَ دُبْرُ الشَّهِيدِ وَفِي دُبْرِهِ وَعَلَى دُبْرِهِ وَاَدْبَارُ الشَّهِيدِ وَفِي اَدْبَارِهِ" یعنی وہ میدان کے آخر میں آیا۔

دُبْرُ الْبَيْت - مکان کا کونہ۔ الدبرَة - عاقبت جنگ میں شکست قابل کاشت قطعہ ارضی ج۔ دِبَارُ الدبر - زخمی پیٹھ والا جانور۔ پیٹھ لگا جانور۔

الدبرَة - ضد قبلہ۔ کہتے ہیں "لَيْسَ لِهَذَا الامرِ قَبْلَةٌ وَلَا دُبْرَةٌ" یعنی اس کی وجہ کا پتہ نہیں لگتا۔ الدبرَة - جانور کی پیٹھ کا زخم جو کجاوہ

وغیرہ سے ہو جاتا ہے ج۔ دَبْر و اَدْبَار۔

الدبر - ہلاکت۔ الدبر - کھیتوں کی نالیاں جنگلی شکستیں۔

الدبر - پچھوائی ہوا۔ الدبر من الرجل - پیچھے کہتے ہیں "هُوَ لَا يَعْرِفُ قَبِيلَهُ مِنْ دَبْرِهِ" وہ آگے پیچھے کی تمیز نہیں رکھتا۔ یعنی پکا جاہل ہے۔ گناہ۔ کہتے ہیں "عَرَفْتُ قَبِيلَهُ مِنْ دَبْرِهِ" اس نے طاعت و معصیت میں تمیز کر لی۔

الدبر - شکل طریقہ ج۔ دبا پیر۔ الدبرَة - پتھر تراشتے وقت اس کو برابر کرنے کا آلہ۔ فیصح لفظ "الصافور" ہے۔

الدبر - چاند کی ایک منزل جو برج ثور کے پانچ ستاروں پر مشتمل ہے۔

الدبر (د) تابع ہر شے کا آخر اصل۔ گذرا ہوا۔ کہتے ہیں - "آمَسَ الدبر" یعنی گذرا ہوا کل۔ یہ تاکید کے طور پر ہے۔

جیسے کہتے ہیں "رأيتہ بجيتي" نشانہ پر نہ لگنے والا تیر۔ جوئے میں نا کامیاب تیر۔ کہتے ہیں "مَا بَقِيَ فِي الْيَكْنَانَةِ غَيْرُ الدبر" یعنی ترکش میں سوائے دابر تیر کے کچھ نہیں رہا۔ یا کہا جاتا ہے "قَطَعَ اللهُ دَابْرَهُمْ" اللہ ان کی نیخ کنی کرے۔

الدبر - الدبر کا ٹوٹ۔ شکست۔ نحوست۔ انسان کی کوپنیں۔ کھر کا پچھلا حصہ۔ پرندہ

کے پاؤں کا پچھلا خار۔ ج۔ دَوَابِر۔

الدبر - آخری وقت میں نماز۔ الدبر - وہ چیز جو ایسے وقت میں آئے کہ اس کی ضرورت نہ رہے۔ کہا جاتا ہے "فَنُتِرَ الرَّاي الدبري" بری رائے وہ ہے جو وقت کے بعد سوچے۔ "وَجَاءَ دَبْرِيًّا" وہ آخر میں آیا۔

المداير - نا کامیاب تیر والا۔ المقابل والمدابر - شریف والدین والا۔ نجیب الطرفین۔

المداير - زخمی۔ بہت مال والا۔

دبر - الشئ - پوشیدہ کرنا۔

چھپانا - الشئ - چھپنا۔

پوشیدہ ہونا - العنب -

انگور کا خوب میٹھا ہونا -

العصير المغلي - پھوٹے ہوئے

رس کا جوش کھا کر کاڑھا ہونا -

الرجل العصير - پکا کر کاڑھا

کر دینا۔

اَدْبَسَتْ - الارض - زمین کا سبزہ

پھوٹنا۔

اَدْبَسَ - اَدْبَسًا - الفرس

گھوڑے کا سرخی مائل بھورے رنگ

والا ہونا۔ صفت (اَدْبَسَ)

الدبر - ہر سیاہ شے۔ بہت تعداد۔

کہا جاتا ہے "مَا لَ دَبْسٍ" بہت مال

الدبر - پکایا ہوا گاڑھا شیرہ۔

الدبر - شیرہ بنانے والا۔ یا

بیچنے والا۔

الدبر - شہد کھجور کا شیرہ۔

الدبر - سرخی مائل بھورا رنگ۔

لدبر و الدبر - گرز۔

ج۔ دَبَّابِیس۔
 دَبَّشَ دَن، دَبَّشًا۔ الشَّيْءُ جھلکا
 اُتارنا۔ الطَّعَامُ۔ کھانا۔
 الدَّبَّشُ۔ گھر کا سامان۔ رومی سامان۔
 مَكَانٌ مَدْبُوشٌ۔ وہ جگہ جس کی
 سبزی ٹڈیاں صاف کر گئی ہوں۔
 سَبِيلٌ دَبَّاشٌ۔ تباہ کن
 سیلاب۔
 دَبَّعَ (ف ن ض)، دَبَّعًا وَدَبَّاعًا۔
 وَدَبَّاعَةً۔ الجِلْدُ چمڑا رنگنا۔
 اِنْدَبَعَ۔ چمڑے کا رنگ ہوا ہوتا۔
 الدَّبَّعُ وَالدَّبَّعَةُ وَالدَّبَّاعُ وَ
 الدَّبَّاعَةُ۔ چمڑا رنگنے کا مسالہ۔
 جِلْدٌ دَبَّيْعٌ۔ رنگا ہوا چمڑا۔
 الدَّبَّاعَةُ۔ چمڑا رنگنے کا پیشہ۔
 الدَّبَّاعُ۔ چمڑا رنگنے والا۔
 الْمَدَّعِيَةُ وَالْمَدَّعِيَةُ۔ چمڑا
 رنگنے کی جگہ۔ وہ چمڑے جو رنگ
 میں پڑے ہوں۔
 دَبَّقَ (ض)، دَبَّقًا۔ الصَّائِدُ الطَّيْرَ۔
 لاسہ سے پرندہ کا شکار کرنا۔
 دَبَّقَ (س)، دَبَّقًا۔ بَہ۔ چمٹنا۔
 دَبَّقَةً۔ لاسہ سے شکار کرنا۔
 اَدْبَقَهُ۔ چپکانا۔
 تَدَبَّقَ۔ الطَّيْرُ۔ پرندہ کا لاسہ سے
 شکار ہونا۔ الشَّيْءُ۔ لیس
 دار ہونا۔
 الدَّبَّقُ وَالِدَبَّقُ وَالِدَبَّقُ وَالِدَبَّقُ
 پرندہ کو شکار کرنے کا لاسہ۔
 دَبَّلَ (ن)، دَبَّلًا وَدَبْلًا۔ الارض۔
 زمین میں کھا دُوالنا۔ الشَّيْءُ۔
 کسی شے کی اصلاح و درستی کرنا۔
 دَبَّلَهُ (ن ض)، دَبَّلًا۔ بِالْعَصَا۔
 لاطھی سے لگاتار مارنا۔ کہا جاتا
 ہے۔ دَبَّلْتُهُ الدَّبْلُ اس پر

آفتیں ٹوٹ پڑیں یا اس کی ماں نے
 اس کو گم کر دیا (دَبَّلَ)۔
 اللَقْمَةُ۔ بڑا لقمہ لینا۔ الشَّيْءُ۔
 انگلیوں سے جمع کرنا۔
 دَبَّلَ (س)، دَبَّلًا۔ فَرِيہ ہونا۔
 الدَّبْلُ۔ طاعون مصیبت۔ اولاد کی
 موت۔ پانی کی نمر ج۔ دَبْلُ۔
 الدَّبْلَةُ۔ بڑا لقمہ۔ ہر چیز کا ٹکڑا۔
 کھانسی کا سوراخ۔ ج۔ دَبْلٌ وَ
 دَبْلٌ۔
 الدَّبْلَةُ وَالِدَبْلَةُ۔ مصیبت
 پیٹ کی ایک بیماری۔ پیٹ کی
 گلی یا پھوڑا۔
 الدَّبَالُ۔ کھاد۔
 الدَّبُولُ۔ وہ عورت جس کی اولاد مر
 گئی ہو۔ ہلاکت و مصیبت۔
 الدَّبُولُ۔ نرسور۔ پست قد گدھا۔
 دُرْبِيَّتُ۔ الارض۔ چھوٹی ٹڈیوں کا
 زمین کی کاشت کو کھا جانا۔ صفت
 (مَدْبِيَّةٌ وَ مَدْبُوَّةٌ)
 اَدْبَتُ۔ الارض۔ کسی زمین میں چھوٹی
 ٹڈیوں کا بکثرت ہونا۔
 الدَّبِيَّ۔ چھوٹی ٹڈی۔ چھوٹی۔ واحد
 (دَبَّابَةٌ)
 دَبَّقَ (ن)، دَبَّقًا۔ الصَّيَادُ بَہ۔
 شکاری کا کسی چیز سے شکار کرنا۔
 دَبَّقَ۔ چوٹ مار کر دکھ پہنچانا۔ بٹانا۔
 پتھر سے مارنا۔
 دَبَّقَ (ض)، دَبَّقًا۔ السَّمَاءُ۔ ہلکی
 بارش برسنا۔
 الدَّبْقُ وَالِدَبْقَةُ وَالِدَبْقَةُ۔ ہلکی بارش
 الدَّبْقَةُ۔ ہلکا خیف زکام۔
 الدَّبْقُوتُ۔ ہلکے جانے والا۔
 دَبَّرَ (ن)، دَبَّرًا۔ الرَّسْمُ۔
 نشان کا محو ہونا۔ مٹنا۔ صفت

دَبَّارٌ (ج۔ دَوَّارٌ)۔ السَّيْفُ
 تلوار پر زنگ چڑھ جانا۔
 الشَّجَرُ۔ درخت کا پتے لانا۔
 الثَّوْبُ۔ کپڑے کا میلا ہونا۔
 الرَّجُلُ۔ انسان پر بڑھاپے کے
 آثار کا آشکارا ہونا۔
 دَبَّرَهُ۔ ہلاک کرنا۔ چادر سے ڈھانپنا۔
 تَدَبَّرَ وَادْتَدَّرَ۔ بالشَّوْبِ۔ کپڑا
 اوڑھنا۔ کپڑے میں لپٹنا۔ صفت
 (مُتَدَبِّرٌ وَ مَدَّتَرٌ)۔ یہ اصل میں
 مَدَّتَرٌ تھا۔ تباہ کو دال میں مدغم
 کر دیا گیا۔ تَدَبَّرَ فَرَسَهُ۔
 گھوڑے پر کو کر سوار ہونا۔
 اِنْدَبَرَ۔ مٹنا۔ محو ہونا۔
 اَدَبَرَ۔ بہت مال جمع کرنا۔
 تَدَبَّرَ۔ الرَّسْمُ۔ نشان مٹنا۔
 الدَّبَّارُ (ن)، ہلاک ہونے والا۔
 الدَّبَّرُ۔ بہت۔ مَالٌ دَبَّرُ۔ بہت
 مال۔ واحد تشنیه، جمع میں ایک ہی
 طرح استعمال ہوتا ہے کبھی اس
 کی جمع دُتُوسا بھی لاتے ہیں "ہو
 دَتْرُ مَالٍ" وہ مال کا اچھا انتظام
 کرنے والا ہے۔
 الدَّبَّرُ۔ مِلْ جَمَل۔ کہتے ہیں "عَسَاكَوْ
 دَبَّرُ" لشکر ہزار۔
 الدَّبَّارُ۔ بدن سے ملے ہوئے کپڑے
 کے اوپر کا گرم کپڑا۔ وہ کپڑا جس کو
 سونے والا اور ڈھ کر لیتے۔
 الدَّبَّرُ وَالِدَبَّرِيَّ۔ سُنَّت،
 کابل۔ غیر مشہور و معروف۔ بہت
 سونے والا۔
 اَلْدَبَّرُ۔ غافل۔
 دَبَّرَ (ض)، دَجِجًا وَدَجَجَانًا۔
 الْقَوْمُ۔ آہستہ چلنا۔ البَيْتُ
 گھر کی چھت کا ٹپکنا۔ د۔ دَجَّ



السنور۔ پرودہ چھوڑنا۔ لٹکانا۔
 دَجَّجَهُ۔ ہتھیار بند ہونا۔ دَجَّجَتِ
 السماء۔ آسمان پر ابر چھاننا۔
 تَدَجَّجَ۔ پورا مسلح ہونا۔ ہتھیار بند ہونا
 کہتے ہیں۔ تَدَجَّجَ فِی
 شکستہ۔ وہ اچھی طرح ہتھیار
 پوش ہو گیا۔
 الداجج۔ (ف)، الحاجر کی طرح یہ
 بھی مفرد و جمع میں یکساں آتا ہے۔
 خادموں اور بوجھ اٹھانے والوں پر
 اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ج۔
 دَا جَوْنٌ وَ دَا جَلَّةٌ۔
 الدجلۃ۔ سخت تاریکی۔
 الدجاج۔ بتثلیث الدال والفتح
 اعلى۔ مرغی۔ یہ پالتو بھی ہوتی ہے
 اور جنگلی بھی۔ الدجاج المہندی
 ایک بڑا پرندہ جس کو ملک شام
 میں دُجَاجٌ حَبَشِیٌّ اور مصر میں
 دجاج رومی کہتے ہیں۔ واحد
 (دجاجۃ) ج۔ دُجَجَ۔
 الدُجَج۔ سخت اندھیری سیاہ
 پہاڑ۔
 الدجاجۃ۔ عیال۔ دھاگے کی
 بیچک یا اس کا گٹھا۔
 الدجوجی والدیجوج۔ اندھیری
 رات۔ ج۔ دَیَا جِیجُ۔
 الدجاجی۔ مرغی نیچنے والا۔ کالا۔
 دُجَاجِیٌّ۔ سیاہ۔
 المدجج والمدجج۔ پورا پورا
 مسلح۔ کامل ہتھیار پہنے ہوئے۔
 کیونکہ وہ ہتھیاروں میں چھپ
 جاتا ہے۔ یہ ماخوذ ہے دَجَّجَتِ
 السماء سے۔ یعنی آسمان کو بادل
 نے چھپا لیا۔ سیلی کو کہا جاتا ہے۔
 کیونکہ اس کے کانٹے ہتھیاروں کے

مشابہ ہوتے ہیں۔
 دَجَّدَجَ۔ اللیل۔ رات کا تاریک ہونا۔
 دَجَّرَ (س)، دَجَّرَا۔ حیران ہونا۔
 مذہوش ہونا۔ صفت دَجَّرَ
 وَ دَجَّرَانٌ، ج۔ دَجَّرِی وَ
 دَجَّارِی۔
 دَا جَرُمَدَا جَرَّةٌ۔ بھاگنا۔
 الدجوان۔ بیل چڑھانے کے
 لیے نصب کی ہوئی لکڑی۔ واحد۔
 (دَجْرَانَةٌ)۔
 الدیجور۔ اندھیری تاریکی۔ خاکستری
 رنگ کی سیاہی مائل مٹی۔ ج۔
 دَیَا جِیو وَ دَیَا جِو۔
 دَجَلٌ (ن)، دَجَلًا۔ جھوٹ بولنا۔
 (دَجَلٌ وَ دَجَلٌ) البعیر۔
 اونٹ پر قطران لگانا۔
 بالملکان۔ ٹھہرنا۔ مقیم ہونا۔
 وَ دَجَلٌ، الشیء۔ ڈھانپنا۔
 — الاناء۔ برتن پر سونے کا
 پانی چڑھانا۔ گلٹ کرنا۔ اور
 اسی وجہ سے دَجَالٌ کو دَجَالٌ کہتے
 ہیں کیونکہ وہ خلاف باطن کا اظہار
 کرتا ہے۔ الدجَال سونے
 کا پانی (دَجَلٌ الارض)۔
 زمین میں کھا دینا۔
 الدجَال۔ بڑا جھوٹا۔ ایک شخص کا نام
 جو آخر زمانہ میں ظہور کرے گا۔
 ج۔ دَجَّالُونَ وَ دَجَّالَةٌ۔
 دَجَلَةٌ۔ عراق کی دو بڑی نہروں میں
 سے ایک نہر۔ برعایت لفظ اس
 کو مؤنث لانا جائز ہے اور بلحاظ نہر
 مذکر۔ کبھی اس پر الف لام بھی
 داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔
 الدجلۃ۔
 الدجَال۔ گوبر کھاؤ۔

الدجَالۃ۔ زمین پر چھان جانے والا
 ایک بڑا گروہ۔
 دَجَمَدَن، دَجَمَا۔ اللیل۔ رات
 کا تاریک ہونا۔
 دَجَمَدَن (س)، وَ دَجَمَدٌ دَجَمَا۔
 غمگین ہونا۔
 الدجم۔ من الشیء کسی شے کی قسم۔
 الدجم۔ عشق کی تکلیفات و بے چینیوں
 کہتے ہیں۔ "أَخَذْتُ دُجْمًا
 العشق" اس کو عشق کی بیتابیوں
 نے گھیر لیا۔ "عَلَّی یُرَدِّیْ دُجْمًا"
 موزن تالاب۔
 دَجَنٌ (ن)، دَجْنًا وَ دُجُونًا۔ الیوم
 دن کا ابر والا اور بارش والا ہونا۔
 — اللیل۔ تاریک ہونا
 صفت (أَدَجَنٌ) — مؤنث۔
 دَجْنَاءُ۔ ج۔ دُجْنٌ۔
 دَجَنٌ (ن)، دُجُونًا۔ بالملکان۔ اقامت
 کرنا۔ — الحَمَامُ وَ غَبِیْرُکَ
 کبوتر یا کتے وغیرہ کا مانوس ہونا
 صفت (دَاجِنٌ)۔ مؤنث دَاجِنٌ
 وَ دَاجِنَةٌ۔ ج۔ دَوَاجِنٌ۔ کتے
 ہیں۔ "دَجَنُوا فِی لُؤْمِهِمْ"
 وہ کینگی کے عادی ہیں کہ اسے نہیں
 چھوڑتے۔
 أَدَجَنٌ۔ القوم۔ بارش میں داخل ہونا
 — السماء۔ مسلسل برسنے۔
 — المطر والختی۔ ہمیشہ
 رہنا۔ — اللیل۔ تاریک ہونا۔
 دَاجِنَةٌ مَدَّاجِنَةٌ۔ مداہنت
 کرنا۔ دھوکا دینا۔
 أَدَجُونٌ۔ الیوم۔ دن کا بارش
 والا ہونا۔
 الدجَن۔ بہت بارش۔ چھان جانے والا
 سیاہ بادل۔ گھٹا ٹوپ بادل۔



ج۔ دَجْنٌ وَدَجَانٌ وَدُجُونٌ
وَأَدُجَانٌ۔ کتے ہیں۔ یوم
دَجْنٍ وَیَوْمٌ دَجْنٌ۔ بہت
بارش والا دن۔ اسی طرح۔ لیلۃ
دَجْنٍ وَلیلۃٌ دَجْنٌ۔ بہت
بارش والی رات۔
الدُّجْنَةُ تَارِیْکِ۔ ج۔ دُجْنٌ وَدُجْنٌ
وَالدُّجْنَةُ فِی الْوَاوِیْنِ الْاَبِلِ۔
بہت بری سیاہی۔
الدُّجْنَةُ وَالِدُجْنَةُ وَالِدُجْنَةُ
تَارِیْکِ۔ بارش برسانے والا سیاہ
گھٹا ٹوپ بادل۔ ج۔ دُجْنَاتٌ۔
کتے ہیں۔ یومٌ دُجْنَتِ وَیَوْمٌ
دُجْنَتِ۔ بہت بارش کا دن۔
اسی طرح کتے ہیں۔ لیلۃٌ دُجْنَتِ
وَلِیْلۃٌ دُجْنَتِ۔ اندھیری رات
الْاَدُجْنِ۔ تارِیکِ۔ لیلۃٌ مَدُجَانٌ
اندھیری رات۔
الدَّاجِنَةُ وَالْمَدُجِنَةُ۔ من السحاب
بہت بارش برسانے والا بادل۔
دَجَانٌ، دَجَوٌ وَدُجَوٌ۔ اللیل
رات کا تاریک ہونا۔ صفت
دَاجِرٍ، مَوْنَتٌ۔ دَاجِیَّةٌ۔
الثوبُ۔ کشادہ ہونا۔
دَاجِیٌ مَدَّ اَجَاةً۔ ظاہر داری
برتنا اور پوشیدہ کیلئے رکھنا۔ میانہ
روی کے ساتھ کسی کو روکنا۔
اَدُجِیْ اِذَا جَاءَ دَنَدُجِیْ تَدُجِیْاً وَ
اَدُجِوَجِیْ اِذَا جِیْئَا۔ اللیل
رات کا تاریک ہونا۔ اَدُجِیْ
الْبَیْتِ۔ گھر پر پردہ لٹکانا۔
الدُّجْنَةُ قِیْصٌ کَابِیْنٌ۔ ج۔ دُجَاتٌ۔
وَدُجِیْ۔
الدُّجِیَّةُ تَارِیْکِ یا اَبَرِکِ تَارِیْکِ۔ شکاری
کے چھپنے کی جگہ۔ ج۔ دُجِیْ۔

الدَّارِجِیْ۔ فاس۔ من العیش۔
آسودگی۔ نِعْمَتٌ دَاجِیَّةٌ
بھرپور نعمت۔ لیل (دَجِیْ)
اندھیری رات۔
الدَّیَّاجِیْ۔ اندھیریاں۔
دَحْرَنٌ، دَحَا۔ الشَّیْءُ فِی الْاَرْضِ
کوئی شے زمین میں چھپانا۔ الطَّعَامُ
بطنہ۔ پیٹ کا کھانے سے بھر کر
لٹک جانا۔ الرَّجُلُ۔ کدّی
پکڑ کر دھکیلنا۔ الْبَیْتِ فِی
الْثَرَى۔ گھر کو کشادہ کرنا۔
اِنْدَحَّ۔ اِنْدَحَا حَا۔ بطنہ۔ پیٹ
کا فراخ ہونا یا پھولنا۔
الدَّحْدَحُ وَالْمَدْحَدْحَةُ وَ
الدَّاحْدَا حُ وَالْمَدْحَدَا حَةُ
وَالْمَدْحَادِحُ وَالْمَدْحِیْدَا حَةُ
پست قد۔
دَحْرَه رَفٌ، دَحْرًا وَدُحُورًا وَ
مَدْحَرَةً۔ ہکالنا۔ دھتکارنا۔
دور کرنا بھٹانا۔ صفت (دَاجِرٍ
وَدُحُوسٍ) صفت مفعولی (مَدْحُوسٍ)
دَحْرَجَه۔ لڑھکانا۔ تَدَحْرَجَ۔
لڑھکنا۔
الدَّحْرُوجَةُ۔ گریلے کی بنائی ہوئی
گولی۔ ج۔ دَحَا۔ یج۔
الدَّحْرُ۔ سخت۔ مضبوط۔
دَحْسَنٌ (دَحْسًا)۔ بین القوم۔
فساد برپا کرنا۔ الشَّیْءُ۔ بھڑنا۔
— بِرَجْلِهِ۔ پاؤں سے کرینا
— الْجَزَارَ۔ قصائی کا کھال
اتارنے کے لیے ہاتھ کھال میں
گھسانا۔ الثوبُ فِی الْوَعَاءِ
کپڑے کو برتن میں داخل کرنا۔
— بِالْشَّیْءِ۔ پوشیدگی میں برائی
کرنا۔ ایسے طریقہ سے برائی کرنا کہ

دور نہ جانتا ہو۔ د۔ وَادَحَسَ
السُّنْبُلُ۔ بالی میں دانہ پڑنا۔
دَحَسَتْ (دَحْسًا)۔ راضی ہونا۔
انگلی کا متورم ہونا۔ سو جانا۔ صفت۔
(مَدْحُوسٍ) انگلی۔ مَدْحُوسَةٌ۔
الدَّحَا سٌ۔ مِنَ الْبُیُوتِ۔ آدمیوں
سے بھرا ہوا گھر۔
الدَّحَا سٌ وَالْمَدْحَا سٌ۔ زمین کے
اندر رہنے والا زرد کیڑا۔ ج۔
دَحَا سَاتٌ وَدَحَا حِیْسٌ۔
الدَّاحِیْسُ وَالْمَدْحَا حُوسٌ۔ انگلی کے
سرے پر ورم و سوجن۔
الدَّیَّحَسُ۔ بہت۔
دَحْصَنٌ (دَحْصًا)۔ الْمَدْحُوحُ
بِرَجْلِهِ۔ مذبوح جانور کا پاؤں
ٹپکنا۔ الرَّجُلُ۔ جلدی کرنا۔
دَحْصَنٌ (دَحْصًا) وَدُحُوصًا۔
الْحُجَّةُ۔ دلیل کو باطل کرنا۔
دَحْصَتِ الْحُجَّةُ۔ دلیل کا باطل
ہونا۔ الشَّمْسُ۔ سورج کا
مغرب کی جانب ڈھل جانا۔
دَحْصَنٌ (دَحْصًا)۔ مذبوح کی طرح
پاؤں ٹپکنا۔ رَجْلُهُ۔ پاؤں
پھسلنا۔ الْمَطَرُ الْثَلَاثُ۔
بارش کا زمین کو پھسلنی بنانا۔
— عَنْ الْأَمْرِ۔ کسی امر کی
تفتیش کرنا۔
اَدْحَضَ۔ الرَّجُلُ۔ پھسلنا۔
الْحُجَّةُ۔ دلیل کو باطل کرنا۔
اِنْدَحَضَ۔ الْبَرْهَانُ۔ دلیل کا باطل
اور غلط ثابت ہونا۔
الدَّحْضُ وَالْمَدْحَضُ۔ من الامکنۃ۔
پھسلنی جگہ۔ ج۔ دَحَا ضٌ۔
الْمَدْحَضَةُ۔ پھسلانے والی جگہ۔
دَحَقَهُ (دَحَقًا) وَادْحَقَهُ۔ دور

دَحَسَ فَيْهَ . داخل ہونا۔
 دَخَسَ دَسَ دَخَسًا — الحافِرُ۔
 کھر کا سوجنا۔ صفت (دَخَسَ)
 الدَّخَسُ — جوان ریچھ۔ موٹا۔ گھٹیلے
 بدن کا آدمی۔
 الدَّخَسُ — جانور کے کھر کا ورم۔
 الدَّخَسُ — ایک سمندری جانور۔
 عَدَدُ دَخَسٍ (بہت تعداد۔
 — دُخَسٌ دَخَسٌ — قریب
 قریب حلقوں والی زرہ۔
 الدَّخَسُ — گھنی گھاس۔ بڑی تعداد۔
 کہتے ہیں: "هُوَ دَخَسٌ اللَّحْمِ"
 وہ پر گوشت ہے۔ کلاؤ دَخَسُ۔
 بہت گنجان اور گھنی گھاس۔
 الدَّخَسُ — دیکھان
 کے پائے۔
 دَخَلَ دَنَ دُخُولًا و مَدَّ خَلًا۔
 الدَّانُ — گھر میں آنا۔ داخل ہونا۔
 — بہ۔ اندر لانا — علیہ
 زیارت کرنا۔ ملاقات کرنا۔
 دُخِلَ — فِي عَقْلِهِ أَوْ جَسَدِهِ — و
 (دُخِلَ) دَسَ دَخَلًا — عقل
 یا جسم میں خرابی کا داخل ہونا۔
 صفت (مَدَّخُولٌ) — علیہ
 امر فُلَانٍ — اندرونی خرابی
 رکھنا — دَخَلَهُ — داخل کرنا۔
 دَاخَلَهُ مَدَّاخَلَةً — العُجْبُ۔
 خود پسندی پیدا ہو جانا —
 دَاخَلَهُ فِي أُمُورِهِ — دخل
 اندازی کرنا۔
 آدَخَلَهُ — إِدْخَالًا و مَدَّ خَلًا۔
 داخل کرنا۔
 تَدَخَّلَ — داخل ہونا — الشَّيْءُ — کسی
 شئی کا تھوڑا تھوڑا داخل ہونا۔
 تَدَّاخَلَهُ — داخل ہو کر ایک ہی ہونا۔

لَيْلُ دُخْمَسَ — سخت تاریک
 رات۔ ج۔ دَخَامَسَ۔
 الدَّخَامَسُ — بہت گندم گوں موٹا
 آدمی۔ بہادر۔
 دَحْمَلٌ — بہ۔ زمین پر لڑھکنا۔
 دَخَايِدُ خَوَايِدُ سَحْيَ (دَنَ) دَخُوًا
 البَطْنُ — پیٹ کا بڑا ہو کر نیچے
 کی جانب ٹٹک جانا — اللّٰهُ
 الارضُ — خدا تعالیٰ نے زمین کو
 پھیلا دیا — الْحَجَرُ بَيَدِهِ۔
 پتھر پھینکا۔ کہا جاتا ہے: "دَخَا
 الْمَطَرُ الْخَصْيَ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ"
 بارش زمین پر سے کنکریوں کو
 بہا لے گئی۔
 إِدْخَوَى — إِدْخَوَاءٌ — پھیلنا۔
 دَحَى — يَدْحَى — دَنَ، دَحِيًّا —
 الشَّيْءُ — پھیلانا۔
 تَدَحَّى تَدَحِيًّا — الشَّيْءُ — پھیلنا۔
 إِدْخَى — البَطْنُ — پیٹ کا
 کشادہ ہونا۔
 الدَّحِيَّةُ — بندریا — الدَّحِيَّةُ —
 فوج کا سردار۔ ج۔ دَحَاءٌ۔
 الْأُدْحَى وَالْإِدْحَى وَالْأُدْحُوَّةُ و
 الْأُدْحِيَّةُ — ریت میں شتر مرغ
 کے انڈے دینے کی جگہ۔
 الدَّحْمُ وَالِدُحْمُ — دھواں۔
 دَخْدَخٌ — الرَّجُلُ جھمٹے جھمٹے
 قدم رکھ کر تیز چلنا — عَنْهُ
 الشَّيْءُ — روکنا۔
 تَدَّخْدَخَ — الرَّجُلُ — دگیر ہونا۔
 دَخَرَدَنَ و دَخَرَدَسَ دَخَرًا و
 دُخْرًا — ذلیل ہونا۔ حقیر ہونا۔
 أَخْرَهَ — ذلیل کرنا۔
 دَخَسَ (دَنَ) دَخَسًا — الشَّيْءُ فِي
 الرُّمَادِ — کسی شئی کو راکھ میں چھپا کر۔

کرنا۔ بہکانا۔ دھتکارنا۔
 إِتَدَحَّى — اپنی جگہ سے نکل پڑنا۔
 الدَّاحِيُّ — فَا — احمق۔ غضبناک۔
 الدَّحِيْقُ — دور۔ دور ہونے کی جگہ۔
 دَحِيْقُ الْقَوْمِ — قوم کا بہکالا ہوا
 دھتکارا ہوا۔
 مُتَدَحِّقٌ — البَطْنُ — بڑے پیٹ والا۔
 دَحَلُ دَنَ دَخَلًا — بھاگ کر چھپنا۔
 دور ہونا — البَثَرُ — کنویں
 کا ایک جانب میں کھودنا —
 (دَنَ) دَا دَحَلُ فِي الدَّحَلِ۔
 کھود میں داخل ہونا۔
 دَحِلُ دَسَ دَخَلًا — دُحِيلُ پیٹ والا۔
 ہونا۔ صفت (دَحِلُ)
 دَاخَلَهُ مَدَّاخَلَةً — دھوکا دینا۔
 الدَّخَلُ وَالِدُخْلُ — کھود وہ گڑھا
 جو اوپر سے تنگ ہو اور اندر سے
 کشادہ۔ ج۔ دَحَالٌ وَاَدْحَالٌ و
 أَدْحَلُ و دُخُولٌ و دُخْلَانٌ۔
 الدَّحْلَةُ — کنواں۔
 الدَّحِلُ — دھوکا باز۔ فریبی۔ موٹا
 پست قد۔ دُحِيلُ پیٹ والا۔
 الدَّحَالُ — امتناع۔
 البَثَرُ الدَّخُولُ وَالِدَخْلَاءُ،
 اطراف سے پھسلا ہوا، اوپر سے
 تنگ کنواں۔
 الدَّاحُولُ — ہرنوں کے شکار کے
 لیے نصب کی ہوئی لکڑی۔ ج۔
 دَوَا حَيْلُ — اور اس طرح شکار کرنے
 والا شکاری۔ (الدَّحَالُ)
 دَحَمَهُ دَنَ دَحْمًا — زور سے
 بٹانا۔ دھکیلنا۔
 دَحْمَسَ — اللیلُ — رات کا تاریک ہونا۔
 الدَّحْمَسُ وَالِدُحْمَسُ — ہر سیاہ
 شے۔ سخت سیاہ۔ کہتے ہیں۔



— الشئ۔ ایک دوسرے میں داخل ہونا۔
تَدَاخَلَتِ الْأُمُورُ۔ امور کا مشتبہ اور ملتبس ہونا۔
ادَّخَلَ وَإِنْدَخَلَ۔ داخل ہونا۔
الدَّخْلُ۔ مص۔ آمدنی۔ بیماری عیب۔ تمت۔ دخل۔
الرجل۔ نیت۔ راز۔
الدَّخْلُ۔ عقل یا جسم میں فساد و خرابی دھوکا۔ حسب نسب کا عیب۔
وہ لوگ جو اپنی غلط نسبت کسی قوم کی طرف کرتے ہوں۔
دَخَلَ الرَّجُلُ دِخْلَتُهُ وَدَخَلَتْهُ دُخْلَتُهُ۔ نیت۔ مذہب۔ راز۔
کہتے ہیں: ۱۔ هُوَ عَقِيفٌ الدَّخْلَةُ۔ وہ نیت کا پاک ہے۔
الدَّخْلَةُ۔ راز۔ اسی سے ہے۔
فَرَشَتْهُ دِخْلَةُ امْرِئٍ فِيهِ۔
نے اپنے کام کا راز اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ الدَّخْلَةُ۔
مختلف رنگوں کی ترکیب سے ایک رنگ تیار کرنا۔
الدَّخْلُ۔ لمبے چوڑے جسم اور گٹھے بدن والا۔ درخت کی جڑ میں اُگنے والی گھاس۔ ایک چھوٹا پرندہ۔
ج۔ دَخَاخِيلُ دُخْلُ الرَّجُلِ وَدُخْلَاهُ وَدُخْلَاهُ۔
نیت۔ راز۔
الدَّاخِلُ۔ فا۔ اندر آنے والا۔
الدَّاخِلَةُ۔ مؤنث۔ دَاخِلَةُ الْأَرْضِ۔ زمین کا پست حصہ۔
— الْأَزَارِ۔ ازار کا بدن کو چھونے والا حصہ۔ اندرونی حصہ۔
اس کی ضد خَارِجَتُهُ۔ یعنی بیرونی حصہ۔ — الْإِنْسَانِ۔

نیت و مذہب۔ راز۔ ج۔ دَخَاخِيلُ۔
الدَّخَالُ۔ گھوڑے کی ایال۔ ہڈی کے جوڑوں کا آپس میں داخل ہونا۔
الدَّخِيلُ۔ اپنے آپ کو غیر قوم کی طرف منسوب کرنے والا۔ ج۔
دُخْلَاءُ۔ ہر عجیب کلمہ جو عربی زبان میں داخل کر لیا گیا ہو۔ کہتے ہیں۔
دَاخِلُ دَخِيلٍ۔ بدن کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جانے والی بیماری۔
وہ شخص فلاں کے معاملات میں دخیل ہے۔ ودخيل الرجل۔
نیت۔ راز۔ مذہب۔
الدَّخِيلَةُ۔ من الشئ۔ چیز کا اندرونی حصہ۔ دَخِيلَةُ الْمَرْءِ۔
انسان کی نیت۔ اندرونی خیال۔
الدَّخْلُ۔ داخل ہونا داخل ہونے کی جگہ۔ کہتے ہیں۔ هُوَ حَسَنُ الْمَدَّخِلِ۔ وہ امور کو حسن انتظام سے چلاتا ہے۔
الدَّخْلُ۔ مفع۔ کمینہ۔ رزق۔ غیر قوم میں داخل ہونے والا۔
الدَّخُولُ۔ وہ جس کی عقل میں فساد و خرابی ہو۔ دبلا۔ عیب دار۔
نَخْلَةُ مَدَّخُولَةٍ۔ اندر سے کھولا درخت خرما۔ رجلٌ مَدَّخِلٌ۔
موٹا گٹھے بدن کا آدمی۔
الدَّخْلُ وَالِدُ الدَّخْلِ۔ بھیدی۔ راز دار۔ دُخْلُ الرَّجُلِ۔
اس کی نیت۔ راز۔ امور میں دخیل۔
الدَّخِيلُ۔ گوشت کے اندر کی چربی۔
دَخَمَهُ يَدْخُمُهُ دَخْمًا۔
کسی کو گھبرا کر ہٹانا۔
دَخَمَسَهُ دَخْمَسَةً۔ دھوکا دینا۔

دَخِنَ (س) دَخْنًا۔ الطَّعَامُ وَ اللَّحْمُ وَ غَيْرُهُمَا۔ کھانے وغیرہ میں دھواں لگ کر اس کا دھوئیں کی بو دینے لگنا۔ صفت (دَخِنَ)۔
— النَّارُ۔ آگ کا دھواں اٹھانا۔
خُلْفَتُهُ۔ بدعات ہونا۔ بدخلق ہونا۔
دَخِنَ دُخْنًا۔ دھوئیں کے رنگ کا ہونا صفت (دَخِنَ) مؤنث۔ دَخْنَاءُ۔
دَخْنَتُ دَنَ (ض) دَخْنًا وَ دُخْنًا وَ دَخْنَتُ وَادَّخْنَتُ النَّارُ۔ آگ سے دھواں اٹھنا۔
لَدَخِنَ الزَّرْعُ۔ کھیتی کے دانوں کا سخت ہو جانا۔
دَخِنَ۔ الشئ۔ دھوئی دینا۔
تَدَخَّنَ۔ دھوئیں کی بو دینا۔
الدُّخْنُ۔ باجرا۔ کنگنی۔ واحد (دُخْنَةٌ)۔
الدُّخْنُ۔ مص۔ دھواں۔ کمینہ۔ فساد عقل، دین اور حسب میں کھوٹ۔
اور خرابی۔ کہتے ہیں: لَسْتُ أَصَالُ حُذَّ عَلَيَّ دَخْنٍ۔ میں اس کے مکر و فساد کی حالت میں اس سے مصالحت نہیں کروں گا۔
الدُّخْنَةُ۔ دھندلا مکانوں میں دھوئی دینے کی خوشبو۔
أَبُو دُخْنَةٍ۔ ایک قوم کا پرندہ۔
الدُّخَانُ وَالِدُ الدُّخَانِ۔ دھواں ج۔
أَدَخْنَتُهُ وَ دَوَاخِنُ وَ دَوَاخِينُ۔
مولدین کی اصطلاح میں تبا کو اور سگریٹ کو کہتے ہیں۔
الدَّاخِنَةُ۔ دھواں نکلنے کا روشندان۔
چھنی۔ ج۔ دَوَاخِنُ۔
الدَّخْنَانُ۔ دھوئیں سے ڈھانکی ہوئی چیز۔ مؤنث۔ (دَخْنَانَةٌ)۔

<p>نہیں پھیر سکتی۔ دَرَسُ - الطریق - راستہ کا بیج - دَرْدُ البیج - ہوا کی سمت - کہتے ہیں - ہما علی دَرْدِ واحد یعنی وہ دونوں ایک ہی راہ پر گامزن ہیں - ان دونوں کی ایک ہی تجویز اور ایک ہی قصد ہے - الدَّرَارَةُ - تھکے - الکوکب الدَّرِّي بتثلث الدال - چمکتا ہوا روشن ستارہ - فوس دُرِّي - بہت تیز رفتار گھوڑا - دُرِّي السیف تکوار کی چمک دمک - آب و تاب الدَّرُوسُ - بہت دودھ دینے والی اونٹنی - حُرْبُ دُرُوس - خوریز جنگ - الدَّرِيْرُ - مص - روشن چراغ - تیز رفتار جانور - السَّيْرَةُ - دودھ کی فراوانی - المَدْرَامُ - بہت بننے والا - کہتے ہیں "تَمَاءُ مَدْرَام" بہت برسنے والا بادل - عین مَدْرَام بہت آنسو بہانے والی آنکھ - دَرَاة (ف) دَرَاة دَرَاة - زور سے دھکیلنا - ہٹانا - الشَّيْخُ پھیلا نا - بچھانا - السَّيْلُ علیہ سیلاب کا کسی پر اُمڈ پڑنا کہتے ہیں "دَرَاة الرَّجُلُ" علینا "وہ شخص ہم پر اچانک ٹوٹ پڑا" - دُرُوعَا (البَدْرُ چمکنا - النار - روشن ہونا - دَرَاة مَدْرَاة - ایک دوسرے کو دفع کرنا - نرمی برتنا - نرمی کا سلوک کرنا - دھوکا کرنا - تَدْرَأُ تَدْرَأُ - الصائد شکاری کا شکار سے چھپ کر اس کو دھوکا دینا</p>	<p>ہونا - العُرُوقُ - رگوں کا خون سے بھر جانا - دَسَ (دس ض) دَسَا - دجھٹلے - بیماری کے بعد چہرہ پر رونق آجانا رنگ کا بحال ہونا - دَسَ (دس ض) دَسِيْرًا - الفاسس گھوڑے کا تیز دوڑنا - أَدَسَ - المَخْزَلُ - تھکے کو زور سے گھمانا - الشَّيْخُ - حرکت دینا - - علیہ الضَّرْبُ - پے در پے مارنا - الریم السحاب ہوا کا بادل کو برسنے کے قابل بنا دینا - کہتے ہیں "أَدَا اللَّهُ لَكَ أَخْلَافَ الذَّقِ" یعنی اللہ تعالیٰ تم کو رزق کی فراوانی سے نوازے - الناقَةُ - اونٹنی کا دودھ زیادہ ہو کر بہ پڑنا - اِسْتَدْرَ - اللبن - دودھ زیادہ ہونا - ع - بنے دینا - الریم السحاب - ہوا کا بادل سے بارش برسانا - الدَّرُ - دودھ - دودھ کی زیادتی - روح اور کہتے ہیں "لِلَّهِ دَرَاةُ اس کی خوبی اللہ ہی کے لیے ہے - ولا دَرَسَ دَرَاةُ" خدا کرے اس کی بھلائی زیادہ نہ ہو - الدَّرُ - بڑے موتی - واحد (دُرَّة) ج - دُرُر و دُرَات - الدَّرُ - فا - بہت دودھ دینے والی اونٹنی - ج - دُرُور و دُرُر و دُرَات - السَّيْرَةُ - دودھ - دودھ کی زیادتی - دودھ کا بھاؤ - خون - کوڑا - ج دَرَسُ - کہتے ہیں "مَدَّ عَلٰی دَرَاتِهِ اس کو کوئی چیز اپنے ارادے سے</p>	<p>المَدْحُ - دھویں کی جگہ - المَدْحَةُ - انگٹھی - ج مَدَّ اِخْنُ - المَدْحَةُ - دھواں نکلنے کی چھٹی - الدَّخِي - تاریکی - لیلۃ (دَخِيَاءُ) اندھیری رات - الدَّرُ - کھیل کود - اس کا لام کلمہ مانند غد کے واو کے محذوف ہے کبھی اس واو کو الف سے بدل کر (الدَّارُ) کہتے ہیں - کہتے ہیں - مَا أَنَا فِي دَرٍ وَلَا الدَّرُ مَنِيْ میرا کھیل اور کود سے کوئی سروکار نہیں اور نہ میرے لیے یہ نشانیاں شان ہے - الدَّرُ - وقت کہتے ہیں "مَضَى دَرٌ مِنَ الدَّهْرِ" زمانہ کا کچھ وقت گزر گیا - الدَّرَنُ - لہو و لعب - الدَّرَانُ - بے خیر آدمی - کند تلوار - شمشیر برآں (مند) الدَّيْدُنُ والدَّيْدَانُ - عادت الدَّيْدُ والدَّيْدَانُ - چوکیدار نگہبان - ہراول - راہبر - الدَّيْدُونُ - کھیل کود - دَسَ (دس ض) دَسَا - الحَلِيْبُ دودھ زیادہ ہونا - الدُّنْيَا علی اھلہا - اہل دنیا پر دنیا کی فراوانی ہونا - الناقَةُ بَلْبَنَہَا - اونٹنی کا بہت دودھ دینا - دَرَّتْ حُلُوبَتُہَا - اس کی آسودگیاں بڑھ گئیں - النَّبَاتُ - سبزہ کا پھوٹنا - اور گنجان ہونا - دَرَاة دُرُورَا العرق پسینہ بننا - السماء بالمطر - بارش کا برس پڑنا - السَّوَابُ - چراغ کا روشن ہونا - السُّوقُ - گرم بازاری</p>
--	---	--



— دَنْدَرًا عَلَيْهِ۔ کسی کی طرف
جبر و تشدد کا ہاتھ دراز کرنا۔
اَدْرَأَ — الصَّيْدَ وَالصَّيْدِ
شکار کے لیے گھات میں بیٹھنے کی
جگہ تیار کرنا۔
تَدَارَتْ اَدْرَاءُ — القَوْمُ جھگڑے
میں بات کو ایک دوسرے پر ڈالنا۔
اِنْدَرَأَ — السَّيْلُ سیلاب کا
یک بیک امنڈ پڑنا۔ الحَوِيقُ
آگ کا پھیل جانا۔ فُلَانٌ
عَلَيْنَا۔ وہ ہم پر اچانک نمودار ہو گیا۔
اَلدَّرْعُ — نیرہ وغیرہ کی چھڑی کی کچی۔
مخالفت۔ کہا جاتا ہے "قَوِّمْتُ
دَرْعَهُ" میں نے اس کی کچی کو ٹھیک
کر دیا۔ — وَجَاءَ السَّيْلُ
دَرْعًا۔ یعنی سیلاب اچانک جگہ
سے اچانک بہہ آیا۔
اَلدَّرِيُّ وَالِدَرِيُّ — روشن ستارہ۔
اَلدَّرَارِيُّ — نامعلوم الاسم بڑے
بڑے ستارے۔
اَلدَّرِيَّةُ — نشانہ بازی کے لیے
گول حلقہ۔ شکار کو دھوکہ دینے کے
لیے گھات کی جگہ۔
اَلتُّدْرَاةُ وَالْتُّدْرَاةُ — وہ شخص جو
عزت و شوکت کا مالک ہو۔ اور
دشمن کو دفع کرنے والا ہو۔
اَلْمُدْرَأُ — بٹانے کا ذریعہ۔
دَرِبَ (دس) دَسْرًا وَدَرِبَةً
ہوشیار اور ماہر کاری گر ہونا۔
— بِالشَّيْءِ — کسی چیز کا عادی اور
دلدادہ ہونا۔ صفت (دَرِبٌ
وَدَارِبٌ) مَوْنٌ — دَرِبَةٌ
وَدَارِبَةٌ۔
دَرِبَهُ — بِالشَّيْءِ وَفِيهِ وَعَلَيْهِ
کسی کو کسی چیز کا عادی بنانا۔

تَدَرَّبَ — عادی ہونا۔ دَرَبَ
الجُنْدَى — فوجی کا بھگدڑ مچنے کے
بعد بھی اپنی جگہ ڈٹا رہنا۔
اَدْرَبَ — بگل بجانا۔ القَوْمُ
دشمن کی سرزمین میں داخل ہونا۔
اَلدَّرْبُ — گلی کا کشادہ دروازہ۔
بڑا دروازہ۔ راستہ۔ دَرْدُبُ
وَدَرَايُ۔
اَلدَّرِبَةُ — مص۔ لڑائی اور ہر کام میں
جرات و دلیری۔ کہتے ہیں "فِي
اَلْعَفْوِ دَرِبَةٌ" عفو و درگزر
بڑی دلیری کا کام ہے۔
اَلدَّرُوبُ وَالِدَرُوبُ — مِنْ
اَلجَمَالِ وَالنَّوْقِ — سدھایا ہوا
اونٹ یا اونٹنی۔
اَلدَّرَسُ اَبْنَةُ — لڑائی وغیرہ میں جرات
و دلیری۔
اَلْمُدَّرَبُ — معجم۔ تجربہ کار مصائب
زمانہ جھیلے ہوئے — مِنْ اَلْاِبِلِ
سدھایا ہوا اور گلیوں میں چلنے کا
عادی اونٹ۔
اَلدَّرَبَانُ وَالِدَّرَبَانُ — دربان
جہ۔ دَرَابَتَةٌ — (فارسی کلمہ)
اَلدَّرَبِيْنُ وَالِدَّرَبِيْنُ
وَالِدَرَابَرْدُونُ — لکڑی یا لوہے
کے ستون جو ایک نظام میں بنائے
جاتے ہیں۔ اور ان پر چھت کا
سہارا ہوتا ہے۔ جہ۔ دَرَابَرْدُونَاتُ
کٹہرا۔
اَلدَّرِبَانُ — شیر۔ کاٹنے والا کتا۔
دَرَبِيْنٌ دَرَبِيْنَةٌ — خوف سے
خاموش ہو جانا۔
دَسْرَجَرْدَنُ (ض) دَسْرُوجًا وَ
دَرَجَانَا — الشَّيْءُ اَوَالصَّبِي
بڑے یا بچہ کا چلنا۔ اَلرَّجُلُ

سیرتوں پر چڑھنا۔ القَوْمُ
ختم ہو جانا۔ مرجانا۔ کہتے ہیں "هُوَ
اَكْذَبُ مِنْ دَبِّ وَدَرَجٍ" وہ
زندوں اور مردوں میں سب سے
زیادہ جھوٹا ہے۔ اَلرَّجُلُ
لاولہ فوت ہو جانا۔ اَلْبِنَاءُ۔
منزلوں والا مکان بنانا۔ دَرَجًا
وَدَرَجَةً وَ اَدْرَسَجَرُ الشَّوْبُ اَو
اَلْكُتَابُ۔ کپڑے یا کتاب کو
لپیٹنا۔ نہ کرنا۔ وَ دَسْرَجَرُ
اَلْبِنَاءُ۔ عمارت کا زینہ بنانا۔
سیرتیں تیار کرنا۔ دَرَجَهُ
الی کذا۔ دھیرے دھیرے
قریب ہونا۔ دَرَجَهُ اَلْمَوْتَ۔
تنگ دل کرنا۔
اَدْرَجَرُ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ — ایک چیز
کو دوسری میں داخل کرنا۔ کسی چیز میں
لپیٹنا۔
دَسْرَجَرُ (دس) دَسْرَجًا — اپنے راستہ
پر چلنا۔ ترقی کے مدارج طے کرنا۔
کلام یا دین میں سچائی کے راستہ
پر چلے رہنا۔
تَدَرَجَ — اَلی کذا۔ رفتہ رفتہ کسی
چیز کی طرف بڑھنا۔
اِنْدَرَجَ — القَوْمُ۔ قوم کا ختم ہو جانا۔
— فِی کَذَا۔ داخل ہونا۔
اِسْتَدْرَجَهُ — اَلی کذا۔ قریب کرنا۔
ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں ترقی
دینا۔ زمین پر چلانا۔ دھوکا دینا۔
اَلدَّرَجُ — کھائی کا کاغذ۔ کہا جاتا ہے۔
اَلْفَدْرَجَةُ فِی دَسْرَجِ اَلْكِتَابِ۔
میں نے اس کو اپنے خط کے ساتھ
بھیج دیا۔ — فِی اَلْفَدْرَجَةِ۔ روائی
کے ساتھ پڑھنا۔ کہتے ہیں "هُوَ
هُمَّ دَرَجُ يَدِكَ" وہ تمہارے

ہاتھ میں ہے۔ مفرد و جمع یکساں ہیں۔

المدْرَجُ - عورتوں کی خوشبو یا اور چیزیں رکھنے کی صندوقچی۔ ج

آدْرَجُ و درَجَةٌ۔

المدْرَجُ - کھنے کے کام میں آنے والا کاغذ۔ راستہ۔ دو آدمیوں کے

درمیان صلح کے لیے سفیر۔ ج

آدْرَجُ و درَجُ - کہتے ہیں

”رَجَعْتُ آدْرَجِي“ میں جس راستہ

سے آیا تھا اسی راستہ لوٹا۔ ”و

ذَهَبَ دَمْلُهُ دَرَجًا و آدْرَجًا

الوِیَا ج۔ اس کا خون رانگاں گیا۔

یعنی قصاص نہ لیا گیا۔ ”و خَلَّی

دَمْرَجَ الصَّبَّ“ جس طرح وہ

جاتا ہے جانے دودا اسے اپنے

حال پر چھوڑو۔

المدْرَجَةُ ج۔ دَمْرَجُ۔ سیڑھی۔

دَمْرَجُ السَّكَنِ سیڑھی کا پایہ۔

ج۔ دَرَجَاتُ مرتبہ۔ درجہ

رتبہ۔ دائرہ خواہ چھوٹا ہو خواہ

بڑا۔ اس کے ۶۰ اجزاء میں

سے ایک جُز۔

المدْرَجُ ج۔ فَا۔ تَرَابُ دَرَجٍ۔

ہر جگہ پھیلنے والا غبار۔ کہتے ہیں۔

”صَبَّی دَرَجًا“ پاؤں پاؤں چلنے

والا بچہ۔ وَقَبِيلَةُ دَرَجَةٍ

بالکل تباہ ہو کر ختم ہو جانے والا

قبیلہ۔

المدْرَجَةُ جانور کی ٹانگ۔ ج

دَوْرَجُ۔

المدْرَجُ ج۔ تیز چلنے والی ہوا۔

المدْرَجُ ج۔ بڑی مشقت کے کام جو

انسان کو عاجز کر دیں۔ کہتے ہیں۔

”وَقَعَ فِي الدَّرَجِ“ وہ بڑی دشواری

کے کام میں الجھ گیا۔

المدْرَجُ ج۔ بہت پھرنے والا۔ چغلیخو

سیبی۔

المدْرَجَةُ سائیکل عام لوگ اسے

کُتْرَاجَةٌ کہتے ہیں۔ اور اسے

بَسْکَلَتْ بھی کہا جاتا تھا۔

المدْرَجَةُ محامروں کی مشین بمعنی۔ دَبَابَةٌ

المدْرَجُ۔ تیز زرمادہ ہرود کے

لیے یکساں لفظ آتا ہے۔ ج

دَوْرَجُ واحد (دَوْرَجَةٌ)

اس میں تازہ وحدت کی ہے نہ

تانیث کی۔

المدْرَجُ۔ راستہ۔ مسلک۔ اسی

سے ہے ”لَمْ تُشْرِ فِي مَدَارِجِ

الْحَقِّ“ حق کے راستہ چلو۔

— مَدْرَجُ التَّمَلُّلِ چوٹیوں

کے چلنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ ”ہو

أَخْفَى مِنْ مَدْرَجِ التَّمَلُّلِ“

وہ چوٹیوں کے راستہ سے بھی

زیادہ پوشیدہ ہے۔

المدْرَجُ۔ لیٹی ہوئی کتب یا خط۔

ج۔ مَدَارِجُ۔

المدْرَجُ و المدْرَجَةُ۔ لیٹی ہوئی

کتاب یا خط۔ ج۔ مَدَارِجُ۔

المدْرَجَةُ ج۔ مَدَارِجُ۔ افضل

یا اعلیٰ تک رسائی کا واسطہ اور

ذریعہ۔ کہتے ہیں۔ ”هَذَا لِمَا

مَدْرَجَةٌ لِهَذَا“ یہ اس امر

کے لیے واسطہ ہے۔ راستہ۔

راستہ کا بڑا حصہ۔ وہ کاغذ یا

کپڑا جس میں کوئی تحریر لکھی جائے۔

یا لپیٹی جائے مَدَارِجُ الْأَكْمَةِ

ٹیلہ کے درمیان کے راستے۔

ارَضٌ مَدْرَجَةٌ۔ وہ زمین جس

میں تیز بکثرت ملیں۔

دَرَجَةٌ (ف) دَرَجًا۔ ہٹانا۔ دفع کرنا۔

دَرَجٌ (س) دَرَجًا۔ بوڑھا ہونا۔

صفت مذکر مونث ہر دو کے لیے

(دَرَجٌ)

دَرَدَس (د) دَرَدًا۔ غضب ناک ہونا۔

صفت (دَرَدٌ) بے دانتوں کا ہونا۔

پوپلا ہونا۔ صفت۔ رَاَدَرَسُ

مؤنث۔ دَرَدَا۔ ج۔ دَرَدٌ

آدَرَدَا۔ دانتوں کا گرنا۔ اسنانہ

پوپلا کر دینا۔

الدَّرَدِيُّ۔ تلچھٹ۔

دَرَدَبُ۔ الرجل۔ خوف زدہ کی

طرح بھاگنا اور پیچھے مڑ مڑ دیکھتے

جانا۔ اِمْرَأَةٌ (دَرَدَبٌ) رات

میں آنے جانے والی عورت۔

الدَّرَدِيُّ مَصِیْبٌ۔ بہت بوڑھا

مرد یا بوڑھی عورت۔

دَرَدَرُ۔ الشَّيْءُ الْوَاسِطِيُّ الْمُسْتَوْرَقُ

آہستہ آہستہ منہ میں کھجور چبانا۔

الدَّرَدَا۔ ڈھول کی آواز۔ ایک

نوع کی اور غار و آبپوں والا

بڑا درخت۔

الدَّرَدُ۔ بچہ کے دانت نکلنے کی جگہیں

ج۔ دَمَارِجُ۔

الدَّرَدُوسُ۔ بھنور۔

دَرَدَس (س) دَرَدًا۔ دنیا کی نعمتوں اور

لذتوں پر قادر ہونا۔

دَرَدَس دَرَدًا۔ الثَّوْبُ۔

کپڑا یا ایک سینا۔ الْخِيَاطُ

الدَّرَدَسُ۔ درزی کا سیون کو

باریک سینا۔

الدَّرَدَسُ۔ دنیوی نعمتیں اور لذتیں۔ دو

کپڑوں کے درمیان کا سیون۔

ج۔ دَرَدَسُ۔ بَنَاتُ الدَّرَدَسِ

ہوئیں اور ان کے انڈے۔



أَوْلَادُ دَرَزَةٍ جولاہے۔ درزی۔ کینے
لوگ — اَہْدَرَزَةٍ دنیا
کی کنیت۔

الدَّرَزِيُّ۔ درزی۔ ابو محمد عبداللہ درزی
جس کی طرف طائفہ درزیہ منسوب
ہے اور اس کے افراد لبنان اور
حوران میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ج
دَرَزَةٌ اور دُرُوزٌ بھی کہتے ہیں۔
واحد دَرَزِيٌّ۔ عوام دال پر ضمتہ
لگا کر دُرُزِيٌّ بولتے ہیں۔

دَرَسَ رَن، دُرُوسًا — الرسعہ۔
نشان مٹنا۔ صفت (دارس)
ج۔ دَوَّارِسٌ — الشیء
کسی شے کا اثر جاتا رہنا۔ د۔
دَرَسًا، الرسعہ۔ نشان مٹنا۔
— الثوب۔ کپڑے کو بوسیدہ
کرنا۔ دَرَسَ۔ بوسیدہ ہونا
— الناقۃ۔ اونٹنی کو سدھانا
(دَرَسًا وِدَرَسَةً)۔
الکتاب او العلم۔ کتاب یا علم
کو یاد کرنے کے لیے متوجہ ہونا۔
(دَرَسًا وِدَرَسًا) المحنطۃ
گیہوں کو گامنا۔

دَرَسَہ وَاَدَرَسَہ۔ الکتاب
کتاب پڑھانا۔
دَرَسَ۔ البعیر۔ اونٹ کو سدھانا۔
دَرَسَہ مَدَرَسَہ وِدَرَسًا۔
ایک دوسرے کو پڑھ کر سنانا۔ باہم
پڑھنا — دَرَسَہ اِکْتَتَبَ۔
پڑھنا۔ الذُّؤَبُ۔ گناہوں کا ارتکاب
کرنا۔

تَدَارَسَ۔ الطلبة الکتاب۔ مل کر
پڑھنا۔ کہتے ہیں۔ تَدَارَسَ
اِکْتَتَبَ وَاَدَارَسَہ اس نے
کتاب پڑھی۔

اِنْدَرَسَہ — الرسعہ۔ مٹنا۔
— الخبیر۔ خبرنا پیدا ہونا۔

الدَّرَسُ۔ مص۔ سبق۔ پوشیدہ
راستہ۔ ج۔ دَرُوسٌ۔
الدَّرَسُ والدَّرَسُ والدَّرِيسُ۔
بوسیدہ کپڑا۔ اونٹ کی دُم۔ ج
أَدْرَاسٌ وِدَرَسَانٌ۔
الدَّرَسَةُ۔ ریاضت۔ ورزش۔
الدَّرَاسُ۔ بہت پڑھنے والا۔
المَدَرَسَةُ۔ طلبہ کے تعلیم پانے کی جگہ
کہتے ہیں۔ "هذه مدرسة النعم"
یہ چوپائے کا راستہ ہے۔

المَدَرَسُ۔ پڑھنے کی کتاب۔ پڑھنے
کی جگہ۔
المَدَرَسُ۔ توراۃ پڑھنے کی جگہ۔
المَدَرُوسُ۔ مفع۔ پرانا کپڑا۔
طریق مَدَرُوسٌ۔ چلتا ہوا
راستہ۔ فِرَاشٌ مَدَرُوسٌ۔
بچا ہوا فرش۔ مجنون۔

دَرِصَتْ (دَس) دَرَصًا۔ الناقۃ
بڑھاپے کے سبب دانت ٹوٹی
اونٹنی۔ مَوْنَتْ۔ دَرَصَاءُ۔
الدَّرِصُ والدَرِصُ۔ چوہا۔ بلی۔
خزگوں وغیرہ کا بچہ۔ ج۔ آدَرَاصٌ
وَدَرِصَہ وِدَرِصَانٌ۔ و
دُرُوسٌ وَاَدَرِصُ۔

الدَّرِصُ والدَرِصُ۔ تیز رفتار اونٹنی۔
أَمْدَرَاصٌ۔ جنگلی چوہا۔ بلا مصیبت
کہتے ہیں۔ وَقَعُوا فِي أَمِّ آدَرَاصٍ۔
یعنی وہ ہلاکی میں پڑے۔

دَرِجَہ (دَس) دَرَعًا۔ الفرس وغیرہ۔
گھوڑے کا سیاہ بدن اور سفید
سروالا ہونا۔ صفت (آدَرَجُ)
مَوْنَتْ۔ دَرَعَاءُ۔ ج۔ دَرَجُہ
دَرَجَہ (دَس) دَرَعًا۔ الشایۃ بکری کی


کھال اس کی گردن کی طرف سے
اتارنا — الرِقْبَةُ او الیَدُ
گردن یا ہاتھ کا جوڑ اکھاڑنا۔
دَرِجَہ۔ الذرعہ۔ کھیتی کا کچھ حصہ
کھا لیا جانا — الماء۔ پانی کے
قریب کی ہر شے کو کھا لیا جانا۔
دَرَعَہ۔ زرہ پہننا — المِرَاقَہ
عورت کو قمیص پہنانا — ۵۔
کسی کا گلا گھونٹنا — الشیء۔
ظاہر کرنا — الرِجْلُ۔ چلنے
میں آگے بڑھنا۔

آدَرَجَہ۔ الشہرہ۔ مہینہ کا آدھ سے
زیادہ حصہ گزر جانا۔ د۔ و
تَدَرَجَہ وَاَدَرَجَہ۔ زرہ پہننا۔
آدَرَجَہ وَاَدَرَجَہ۔ اللیل۔ رات
کی تاریکی میں داخل ہونا۔ کسی چیز
کے اندر کسی چیز کو داخل کرنا —
آدَرَجَہ الماء۔ پانی کے قریب
سب چیز کھاٹی جانا۔

اِنْدَرَجَہ۔ فی السیر۔ چلنے میں آگے
بڑھنا۔ "اِنْدَرَجَہ یَفْعَلُ کَذَا"
وہ ایسا کرنے لگا — العظم
بڑی کا گوشت سے جدا ہونا۔
البطن۔ پیٹ کا بھر جانا —
التَقَرُّمِ السَّحَابِ۔ چاند
کا بادل سے نکلنا۔

الدَّرَجُہ۔ زرہ۔ مَوْنَتْ ہے۔ کبھی مذکر
بھی مستعمل ہوتا ہے۔ ج۔ دُرُوجُہ
وَاَدَرَجَہ وِدَرَاغُہ۔ تصغیر۔ دُرِیْعُہ
دَرِجُہ المِرَاقَہ۔ عورت کا قمیص کرتا یا
وہ کپڑا جو گھریں پہنتی ہے۔ مذکر
ہے۔ ج۔ آدَرَاغُہ۔ اور دَرَاغُہ
اس چھوٹے کپڑے کو بھی کہتے ہیں جس
کو کفن لڑکی گھریں پہنتی ہے۔

الدَرِجُہ۔ مِنَ الْعَشَبِ۔ تازہ گھاس۔



الدَّرْعُ والدَّرْعُ قمری میسنکی
سولہویں سترہویں اور اٹھارویں
راتیں۔

الدَّرْعُ فَا۔ زرد پوش۔
الدَّرْعَةُ۔ چھلکے کی طرح کی ایک چیز
جس کو درخت خرما کے ارد گرد لگا
دیا جاتا ہے۔ ج۔ دَرْعٌ۔

الدَّرْعَاءُ۔ اَدْرَعُ کا مؤنث۔ جن
اللیالی۔ وہ راتیں جن میں چاند صبح
کے وقت نکلتا ہے۔ ج۔ دَرْعٌ۔
الدَّرْعِيَّةُ۔ زرد کو چھیدنے والا نیزہ۔
ج۔ دَرْعِيٌّ۔

الدَّرَاعَةُ۔ ج۔ دَرَادِيحٌ۔ و
الدَّرَاعَةُ۔ ج۔ مَدَارِعُ۔
آگے سے کھلنے والا جبہ۔ یا کوٹ۔
علمائے یہود کے پہننے کا ایک کتانی
کپڑا۔ مَاءٌ (مُدْرَعٌ وَمُدْرَعٌ)
پانی کے آس پاس کی چراگاہ کو چر
لیا جانا۔ رَوْضَةٌ مُدْرَعَةٌ۔
وہ باغ جس کے ارد گرد کو کھا لیا
گیا ہو۔

الْمُدْرَعُ۔ مفع۔ ایک قسم کا جانور۔
الْمُدْرَعَةُ۔ فولادی جنگی جہاز۔
الدَّرْتُ۔ سیاہ۔ پناہ۔ جانب۔
الدَّرْكَةُ۔ عوام کی اصطلاح
میں دروازہ کا پرٹ۔ اس کے لیے
قصیح عربی "الصَّفْقُ" ہے۔
دَرَقٌ وَاذَرَقٌ۔ فی سیدہ۔
تیز چلنا۔

دَرَقٌ دَرَقًا۔ فی المشی۔ تیز چلنا۔
دَرَقَهُ۔ نرم کرنا۔

الدَّرَقُ۔ مص۔ سخت چیز۔

الدَّرَقَاءُ۔ بادل۔

الدَّرْقَةُ۔ چڑھ کی ڈھال۔ ج۔ دَرَقٌ۔

الدَّرَائُ۔ ایک میوہ کا درخت۔

ایک قسم کا میوہ (آڑو) واحد
دَرَائِيٌّ (شرب) شراب۔ (الدَّرَائُ
والدَرِّيَّاتُ) تریاق۔

الدَّرَائِيٌّ۔ زرد آلو۔ شفتالو۔
الدَّرَقُ۔ ددوستے والا بڑا لوٹا۔
ج۔ دَرَائِقُ (معترب) عابدوں
اور زاہدوں کے پہننے کی ٹوپی اور جو
ان کو پہنتے ہیں۔ ان کو دَرَقِيُّونَ
کہتے ہیں۔

دَرَقُلٌ۔ الرجل۔ تیز گزر جانا۔
ناچنا۔ ناز سے چلنا۔

الدَّرَقُلُ۔ ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔
دَرَكٌ۔ المَطَرُ۔ بارش کا پے
درپے برسنا۔

أَدْرَكَ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کا اپنے وقت
پر پہنچنا۔ الثَّمَرُ۔ پھل پکنا۔
الْوَلَدُ۔ بچے کا بالغ
ہونا۔ الشَّيْءُ۔ لاجئ ہونا۔
المَسْأَلَةُ۔ جان لینا۔ بشارہ۔
خون کا بلبلے لینا۔ الشَّيْءُ
ببصرہ۔ دیکھنا۔

دَارَكَهُ مُدَارَكَةً۔ دَرَاكَ۔ لاجئ
ہونا۔ الشَّيْءُ۔ ایک کو دوسرے
کے پیچھے کرنا۔ الطَّعَنُ۔ پے
درپے نیزہ مارنا۔

تَدَارَكَ۔ القَوْمُ۔ ایک کا دوسرے
سے آگے۔ اور اس میں إِذَا دَرَكَ
بولا جاتا ہے۔ الخطأ۔
بالصواب۔ غلطی کی درستی کرنا۔

خطا کی اصلاح کرنا۔ مَا قَاتَ
بابت سے نکلی ہوئی بات کی تلافی کرنا

کہتے ہیں۔ تَدَارَكَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ
اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے
لے۔ "وَتَدَارَكَ الْقَوْمُ" اس
نے قوم کی تلافی کی۔

إِدْرَكَهُ۔ مل جانا۔ لاجئ ہونا۔
إِسْتَدْرَكَ۔ الشَّيْءُ۔ الشَّيْءُ۔ ایک
چیز کو دوسری چیز کے ذریعہ حاصل
کرنے کا ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے۔
إِسْتَدْرَكَ النِّجَاةَ بِالْفَوَارِ۔ اس
نے بھاگ کر نجات حاصل کرنے کا
ارادہ کیا۔ مَا قَاتَ۔ مافات کی
تلافی کرنا۔ الخطأ بالصواب۔
غلطی کی درستی اور اصلاح کرنا۔
عليه القول۔ کسی کی بات میں
غلطی نکالنا۔

الدَّرَكُ والدَّرَكُ۔ لاجئ ہونا۔ حاجت
پانا۔ چیز کی انتہائی گہرائی۔ کہتے ہیں۔
تَلَعَّ الْعَوَّاصُ دَرَكَ الْبَحْرِ۔
غوطہ زن سمندر کی انتہائی گہرائی
میں پہنچا۔ یا کہا جاتا ہے۔ "فَرَسٌ
دَرَكُ الْطَرِيقَةِ"۔ بھلے ہوئے
جانور تک پہنچنے والا گھوڑا۔ تاوان۔
چنانچہ کہتے ہیں۔ "مَا لِحَقَّكَ مِنْ دَرَكٍ
فَعَلَيْ خَلَاَصُكَ"۔ جو تاوان تم پر قائم ہو
اس کی ادائیگی کا ذمہ دار میں ہوں۔

الدَّرَكَةُ۔ درجہ۔ درجہ اور درجہ میں
یہ فرق ہے کہ تزلزل کی صورت میں
درجہ بدلتے ہیں اور ترقی کے موقعہ
پر درجہ کہتے ہیں۔ ج۔ دَرَكَاتٌ۔
کہتے ہیں۔ "الْجَنَّةُ دَرَجَاتٌ وَ
النَّارُ دَرَكَاتٌ"۔

إِدْرَاكَ۔ مص۔ قوت بدرجہ۔ ادراک
کی قوت۔


دَرَاكَ۔ اسم فعل بمعنى أَدْرَكَ۔

الدَّرَاكَ۔ متصل۔ سیر۔ دَرَاكَ
متصل سیر۔

الدَّرَاكُ۔ مرغوب چیز کو پالنے والا۔

الدَّرِيكَةُ۔ بھگائی ہوئی۔

إِلِسْتَدْرَاكَ۔ مص۔ پیچھے کلام سے



پیدا شدہ وہم کو دکرنا۔ ”رجیل“
مُدْرِکَةُ تیز ادراک والا۔ تاء
مبالغہ کی ہے نہ تائینث کی۔

مَدَارِکُ الشَّرْع۔ جہاں جہاں سے
احکامات شرعیہ کا پتہ لگے۔ مثلاً
قرآنہ اور احادیث نبویہ
المُدْرِکَاتُ وَالْمَدَارِکُ۔ حواس خمسہ۔
الدُّبُکَةُ۔ بھیڑ۔ انبہ۔

الدَّرَابُکَةُ۔ ایک قسم کا باجر (مولدہ)،
دَرَمَ (دس) دَرَمًا — العضو
گوشت کا بڑی کو چھپالینا۔ صفت۔
دَرِمٌ دَرِمٌ دَرِمٌ دَرِمٌ
وَأَدْرَمَ — السَّاقُ
ہموار ہونا — الْأَسْنَانُ
دانتوں کا گرنا۔ گرنے کے قریب
ہونا — البعید۔ اونٹ کا
دانت گرنا۔

دَرَمَ (دس) دَرَمًا دَرَمًا
دَرَمًا دَرَمًا دَرَمًا — الْقُفْظُ
الْأَرَبُ دُخُوهُمَا۔ چھوٹے
چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔ اور
دَرَمَ الشَّيْخُ وَالصَّبِيُّ بھی کہتے ہیں
دَرَمَ۔ اظفارہ۔ ناخن کاٹنے کے
بعد ان کو ہموار کرنا۔

أَدْرَمَ — الصَّبِيُّ نئے دانت نکلنے
کے لیے بچہ کے دانتوں کا ہلنا۔
صفت (ادرم) مؤنث۔ درماء
الدَّرَمَاءُ۔

دَرَمَ۔ مُدَارِمَةٌ۔ بوجھل ہوتے
ہوئے تیز چلنا۔

الدَّرِمَةُ۔ مؤنث۔ دَرِمٌ۔ خرگوش۔
دَرَمٌ دَرِمٌ۔ چمکدار نرم زرد۔
الدَّرَامُ وَالْدَرَامَةُ۔ سیبی۔ خرگوش۔
الدَّرَامُ۔ بد رفتار۔ پست قد۔
مؤنث۔ دَرَامَةٌ — دُرْعٌ

مُدَّرِمَةٌ۔ چمکدار نرم زرد۔
دَرَمٌ دَرِمٌ۔ خاموش رہنا — الشَّيْءُ۔
چھپانا۔

دَرَمٌ دَرِمٌ دَرِمٌ دَرِمٌ۔ خاکساری کرنا۔
الدَّرَمُ وَالْدَرَمُ۔ سفید
آٹا۔ میدہ۔

دَرَمٌ دَرِمٌ دَرِمٌ دَرِمٌ۔ اِبْنَاءُ عِمَارَتِ
کو چمکدار کرنا۔

الدَّرَمُ۔ نرم و ملائم مٹی۔
الدَّرَمُوكُ۔ غالیچہ۔

دَرِنَ (دس) دَرِنًا۔ الثوب۔ کپڑے
کا میلا ہونا۔ صفت (درن) د
مِدْرَانُ، مؤنث۔ دَرِنَةٌ د
مِدْرَانُ

أَدْرَنَ۔ الثوب۔ کپڑے کو میلا کرنا۔
— الثوب۔ کپڑے کا میلا
ہونا — أَدْرَنَتِ الْمَرْأَةُ

مویٹی کا پرانی گھاس چرنا۔
الدَّرَنُ۔ میل کچیل۔ ج اَدْرَانُ۔

وَأُمُّ دَرِنٍ۔ دنیا۔
الدَّرَانُ۔ لومڑی۔

الدَّرِينُ۔ پرانی خشک گھاس جس کو
جانور نہ چریں۔ بوسیدہ کپڑا۔

أُمُّ دَرِينٍ۔ قحط زدہ زمین۔
الدَّرَاؤُكُ وَالْدَرِيكُ۔ غالیچہ

قالین۔ ج۔ دَرَانِيكُ۔
دَرَّةُ (د) دَرَهَا۔ علیہم۔ اچانک

آ جانا — لَهُمْ دَعْنُهُمْ
مدافعت کرنا۔ حفاظت کرنا۔

دَرَّةٌ عَلَيَّ كَذَا۔ زیادہ کرنا۔
دَارِهَاتُ الدَّهْرِ۔ مصائب زمانہ۔

التَّدَرُّعُ۔ دفع۔ مدافعت۔ کتے
ہیں۔ ”هُوَ دُوْتُ دَرَّةٍ“ وہ اپنے

دشمنوں پر اچانک ٹوٹ پڑتا ہے
الْمَدَرَّةُ۔ سردار۔ قوم کا لیڈر۔ نمائندہ

ج۔ مَدَارَةٌ۔

دَرَهْمَتِ۔ الْجُبَانِي۔ خبازی کا درہم
کے مانند گول پتے نکالنا۔

أَدْرَهْمَ۔ عمر سیدہ ہونا۔ بڑھاپے
کے باعث دانتوں کا گرنا۔ صفت
(مُدْرَهْمٌ) — الْبَصَرُ
نظر کا کمزور ہونا۔

الدَّرَهْمُ وَالْدِرْهَمُ وَالْدِرْهَامُ
چاندی کا سکہ جس کا وزن ۱۶ اونس
ہوتا ہے (کلمہ یونانی ہے) ج۔

دَرَاهِمٌ۔ مولدین کی اصطلاح
میں دراہم کے معنی مطلقاً نقود
کے ہیں۔

المُدْرَهْمُ۔ مالدار۔ بہت درہموں والا۔
الدَّرُوْشُ۔ راجب۔ زائد عابد۔ فارسی

لفظ ہے جس کے معنی فقیر کے ہیں۔
دَرِيٌّ (دس) دَرِيًّا دَرِيًّا دَرِيَّةٌ

وَدَرِيَّةٌ وَدَرِيَانَا وَدَرِيَانَا۔
وَدَرِيًّا وَدَرِيَّةٌ۔ اور یہ آخری

مصدر بکثرت استعمال ہوتا ہے۔
— الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ جِلْدَہ سے

جاننا۔ جاننا۔
دَرِيٌّ (دس) دَرِيًّا وَتَدَرِيٌّ د

أَدْرِي — الصَّيْدُ۔ شکار کو
دھوکا دینا — دَرِيٌّ النَّاسُ

سر میں کنگھی سے کھانا۔
دَارِيٌّ۔ مُدَارَاةٌ — ہ۔ باہم نرمی

کرنا۔ دھوکا دینا۔
أَدْرِي — الْوَجَلُ بَكْذَا۔ باخبر کرنا۔

جتنا کہتے ہیں۔ مَا أَدْرَاكَ وَمَا
يُدْرِيكَ یعنی تم نہیں سمجھتے۔

الْمُدْرِي وَالْمُدْرَاةُ الْمُدْرِيَّةُ۔
کنگھی۔ سینگ۔ ج۔ مَدَا۔

وَمَدَارِيٌّ۔
دَرَّةُ (د) دَرَرًا۔ دفع کرنا۔ ہٹانا۔

دَس (ن، دَسًا و دَسِيحِي) —
 الشَّيْءُ تَحْتَ التُّرَابِ دَفِيهِ —
 کسی شے کو مٹی کے نیچے چھپانا —
 دَسَّ عَلَيْهِ - سازش کرنا۔
 خفیہ جیل کرنا۔
 دَسَسَ تَدَسَّسًا - بمعنی دَسَّ —
 چھپانا۔ دھنسانا۔ تشدید
 مبالغہ کے لیے ہے، کہا جاتا ہے۔
 دَسِّي (الف سے آخری سین کو
 بدل کر) جیسے تَطَنِّي تَطَنَّنَ
 ہے۔
 تَدَسَّسَ - یہ اِلَى اَعْدَائِهِ —
 کسی کے دشمنوں کے ساتھ
 سازش کرنا۔
 اِنْدَسَّ - دفن ہونا۔ دھنسا۔
 الدَّسِيْسَةُ - چھپا ہوا لکڑ پور شدہ
 عداوت۔
 الدَّسَّاسُ و الدَّسَّاسَةُ —
 سرخ رنگ کا چھوٹا سانپ، جو
 مٹی میں چھپا رہتا ہے —
 الدَّسَّاسَةُ - سانپ کی چھتری۔
 اور مثل ہے اَلْعَوَقُ دَسَّاسٌ —
 یعنی باپ دادا کی عادتیں بیٹے
 پوتوں میں آکر رہتی ہیں۔
 الدَّاسُوسُ - جاسوس۔
 الدَّسِيْسُ - وہ شخص جس کو خبریں
 لانے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔
 مٹی میں چھپائی ہوئی چیز بھول میں
 بھونی ہوئی شے۔ ج۔ دُسُسُ۔
 الدُّسُسُ - کاموں میں دکھاوا کرنے
 والے لوگ۔ ریاکار لوگ۔
 اِلْدَسُّ - وہ آلہ جس سے زخم کی گہرائی
 کا اندازہ کیا جائے۔
 الدَّسْتُ - حیلہ۔ دھوکا۔ مکان کا
 صدر مقام۔ مجلس۔ تکیہ۔ کاغذ۔

لباس صحرا۔ ج۔ دُسُوْتُ۔
 شطرنج کے کھیل میں بولتے ہیں۔
 "الدَّسْتُ لِي" میں جیت گیا۔
 میں نے مات دے دی۔ الدَّسْتُ
 عَلَيَّ" میں ہار گیا۔ مجھے کومات ہو
 گئی۔ عوام الدَّسْتُ کو دیکھ
 کے معنی میں لیتے ہیں۔
 الدَّسْتَجَةُ - گٹھا۔ مٹھا۔ شیشہ کا
 بڑا برتن۔ ج۔ دَسَاتِجَرُ۔
 الدُّسُوسُ - مجموعہ قوانین۔ اجازت
 وزیر (قانون کی وجہ سے کہتے ہیں)
 وہ کتاب جس میں بادشاہ کے
 قوانین و ضوابط ضبط ہوں۔ فوجیوں
 کے ناموں اور ان کے وظائف وغیرہ
 کا رجسٹر۔ ج۔ دَسَاتِيْنُ۔
 الدُّسْتَانُ - موسیقی کی اصطلاح میں
 مربوط کا تار۔ ج۔ دَسَاتِيْنُ۔
 دَسْرَہ (ن، دَسْرًا - نیزہ مارنا۔
 دفع کرنا — السَّفِيْنَةُ
 رسی یا میخ وغیرہ سے کشتی کی درستی
 کرنا — الدَّسَارُ فِي الشَّيْءِ —
 زور سے گھسانا — الشَّيْءُ —
 میخ لگانا۔
 الدَّسَارُ - جواز وغیرہ کی در بند کرنے
 کے لیے پرانی رسیوں کی سن۔
 میخ۔ ج۔ دُسُوْدُسُوْ۔
 الدَّسْرَاءُ - کشتی۔ ج۔ دُسُوْ۔
 الدُّسُوْ - گیہوں میں ایک تلخ قسم کا
 دانہ بشیر۔ موٹا اونٹ۔ شاہ
 عراق نعمان بن منذر کی فوج کے
 دستہ کا نام۔
 الدُّسْرُ و الدُّسْرِي و الدَّاسِرُ
 و الدَّاسِرِي و الدُّسْرَانِي۔
 مضبوط۔ موٹا۔
 دَسَّحَ (ف، دَسَّحًا - منہ بھر کے قے

کرنا — اِبْقِيْهِ - قے پھینکنا۔
 — اِلْاِنَاءُ - برتن بھرنے۔
 — اَلْعَوَقُ رُكْ كَا كُوْشْتِ
 میں چھپنا — الرَّجُلُ - بہت
 بخشش دینا۔ الشَّيْءُ - ہٹانا۔
 دفع کرنا۔ اَلْبَعِيْرُ جَوْتَلَهْ
 اونٹ کا جگالی کرنا۔
 الدَّسِيْبَةُ - بہت بخشش۔ طبیعت
 بڑا پیالہ۔ عمدہ دسترخوان۔ قوت۔
 ج۔ دَسَاتِيْجُ - اَبْعِيْدُ (دَسَّحَ)
 بہت جگالی کرنے والا اونٹ۔
 المَدَّسُحُ - حلق میں کھانے کی نالی۔
 دَسِيْقُ (س، دَسَّقًا - الحوض
 حوض کا بھرنا۔ لبالب ہونا۔
 اَدَسَّقَ - اِلْاِنَاءُ - برتن بھرنا۔
 الدَّيْسُ - بھرا ہوا حوض۔ چاندی کا
 تھال یا خانچہ۔ صاف چاندی کا
 ہر زیور۔ مبارکستہ۔ بوڑھا آدمی۔
 خوبصورتی۔ نور سفیدی۔ سراب کی
 سفیدی اور چمک۔
 الدَّوْسَلُ - شیر۔
 الدَّسْكْرَةُ - بڑا گاؤں۔ گرجا۔ ہموار
 زمین۔ وہ جگہیں جہاں شراب اور
 کھیل کود کی چیزیں ملیں۔ محل کی طرح
 کی عمارت جس کے گرد گرد مکانات
 ہوں اور ان میں شاعر لوگ جمع
 ہوتے ہوں۔ ج۔ دَسَاكُوْ۔
 دَسَدَ (ض، دَسَمًا - اَلْقَارُوْرَةُ -
 بوقل کا منہ بند کرنا۔ ڈاٹ لگانا۔
 — الباب - دروازہ بند کرنا
 — الجَوْحُ - زخم میں تہی رکھنا۔
 — المَطْوُ الارْضُ - بارش
 کا زمین کو کچھ تر کر دینا۔
 — اَلْبَعِيْرُ - اونٹ پر قطران
 وغیرہ ملنا — اَلْاَثَرُ نشان



مٹنا۔

دَسِمَ (س) دَسِمًا وَدُسُومَةً
چربی والا ہونا۔ صفت دَسِمٌ
وَأَدُسَمٌ مَوْزٌ دَسِمَةٌ وَ
دَسْمَاءٌ ج دُسْمٌ وَدُسْمٌ
دَسِمٌ وَتَدَسَمٌ میل ہونا۔
ٹیالے رنگ کا ہونا۔

تَدَسَمَ الرجل۔ چکنا بٹ کی
چیز کھانا۔

دَسَمَ الشیء۔ کسی چیز میں چربی
ڈالنا۔ سیاہ کرنا۔ الْمَطَرُ
الْأَرْضَ۔ بارش کا زمین کو تر
کردینا۔

أَدَسَمَ القَارُورَةُ۔ بوتل کے منہ
پر ڈاٹ لگانا۔

الدَسَمُ۔ مص۔ طرف اور انتہائے
شے۔ کہا جاتا ہے: انا علی
دَسَمِ الامر۔ میں کام کے
انتہام پر ہوں۔

الدَسَمُ۔ چکنائی گوشت کی یا چربی کی
چکنائی کا میل پن۔

الدُسْمَةُ۔ مَجْجُوا۔ مائل بسیا ہی۔
والدِ سَامٍ ڈاٹ۔ کاک۔ کتے
پس: مَا هُوَ إِلَّا دُسْمَةٌ یعنی
اس میں کوئی بھلائی نہیں۔

الدَّيْسَمُ۔ ریچھ یا اس کا بچہ۔ لوطی
یا اس کا بچہ۔ گھاس تاریکی سیاہی
کام میں ساتھی۔ مہربان۔

دَسَا۔ يَدْسُو دَسَوًا وَدَسِي يَدْسِي
دَسِيًا (ن ف) نشوونما نہ پانا۔
الرجل۔ چھینا۔

دَسَ الرجل۔ خراب کرنا۔ گمراہ
کرنا۔ نَفَسَ۔ گنم کرنا۔

کم بخت کرنا۔
دَشَنَ (ن) دَشَنًا۔ دیا تیار کرنا۔

الحَبَّ غلہ کو کھلنا۔ دلنا۔

الدَّشْيَشُ۔ گیہوں کے مانند ایک غلہ
کا دلیا۔

الدَّوْشَقُ۔ بڑا مکان۔ فریہ اونٹ۔

الدَّوْشَقُ۔ فرش۔ بچھونا۔

دَشَنَ (ن) دَشَنًا۔ الشیء۔ دینا

دَشَنَ الثَّوْبَ۔ پہلی بار پہننا۔

المُعْبَدُ۔ کسی عبادت گاہ میں
برکت کے طور پر سب سے پہلے
نماز ادا کرنا۔

تَدَشَنَ الشیء۔ لینا۔

الدَّاشِنُ۔ فَا۔ الدَّاشِنُ مِنْ

التياب۔ نیا کپڑا جس کو ابھی

کسی نے نہیں پہنا ہو۔ مِنْ

الدُّورِ۔ نیا مکان جس میں ابھی کوئی

نہیں رہا ہو۔

دَشَانِ (ن) دَشَوًا۔ لڑائی میں کود پڑنا۔

دَخَلَهُ۔ بخل کرنا۔ دھتکارنا۔

دَعَا (ن) دَعَاً۔ سختی سے بٹانا۔

أَدَعَ الرجل۔ کسی آدمی کے چھوٹے

چھوٹے بچے بہت ہونا۔

الدَّعَاغُ۔ چھوٹے چھوٹے بال بچے۔

الدَّعَاغُ۔ کھجور کے متفرق درخت۔

ایک جنگلی درخت کے دانے۔

سیاہ پروار چھوٹیاں۔ واحد

دُعَاعَةٌ۔

دَعَبَهُ (ف) دَعَبًا وَدَعَابَةً۔

دفع کرنا۔ ہٹانا۔ مسخری کرنا۔ مذاق

کرنا۔

دَاعَبَهُ مَدَاعَبَةً۔ کھیلنا۔ خوش

طبعی کرنا۔

تَدَاعَبَ القومُ۔ ایک دوسرے

کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔

تَدَاعَبَ علیہ۔ ناز کرنا۔

الدَّعِبُ والدَّاعِبُ۔ کھیلنے کو دینے

والا۔ ہنسی مذاق کرنے والا۔

الدَّعَابُ والدَّعَابَةُ۔ بہت خوش

طبعی کرنے والا۔ بہت ہنسی مذاق

کرنے والا۔ اس میں تار مبالغہ کے

لیے ہے، تائید کی نہیں۔

الدَّعَابَةُ۔ خوش طبعی۔ ہنسی مذاق۔

الدَّعَبُ۔ احمق۔ مؤثر۔ دَعْبَاءُ۔

ج۔ دُعْتُ۔

الدُّعْبُ۔ بڑا کھلاڑی۔ اچھا گھڑیا۔

نازک بدن جوان۔

الدُّعْبُوبُ۔ سیاہ چوہنٹی۔ ایک

سیاہ دانہ جو کھایا جاتا ہے۔

بہت چلنے والا راستہ۔ پست

قد کرور آدمی جس کے ساتھ مذاق

کیا جلتے۔ خوش اور چست آدمی۔

مخنت۔ بیوقوف۔ لمبا گھوڑا۔

لیلۃ دُعْبُوبُ۔ بری رات یا

سیاہ اور تاریک رات۔

الدَّعْبُوثُ والدَّعْبُوسُ۔ بیوقوف۔

کم خود۔

الدَّعْبُلُ۔ مینڈک کے انڈے۔

(د) والدِ عِبْكَہُ) طاقتور

اونٹنی۔

دَعَتَ (ف) دَعَتًا۔ سختی سے دھکیلنا

زور سے دھکا دینا۔

دَعَتَ (ف) دَعَتًا۔ پاؤں یا ہاتھ

وغیرہ سے مٹی کو باریک کرنا۔

دَعَفَ بِهِ الارضُ۔ کسی کو زمین

پر پٹک دینا۔

دُعِثَ۔ روٹنے لگے ہوئے۔

أَدْعَثَ۔ فی الشیء۔ برائی میں

زیادتی کرنا۔ الشیء۔ باقی

رکھنا۔ چھڑانا۔

إِنْدَاعَثَ۔ الشیء۔ چیز کا روندنا جانا۔

پامال کیا جانا۔

تَدَعَثْتُ — صَدُوْرُهُمْ كَيْنَهُ
بغض رکھنا۔

الدَّعْثُ — مص. بیماری کی ابتداء۔

الدَّعْثُ — کینہ۔ بغض۔ بقیہ پانی۔

ج۔ اَدْعَاثُ وِدْعَاثُ۔

دَعَثَرُ — الحوض۔ حوض توڑنا۔

— الارض۔ زمین کو روندنا

الدَّعَثَرُ — احمق۔

الدُّعْثُورُ — مِنَ الْحَوْضِ۔ اطراف

سے گرایا ہوا لوٹا ہوا حوض۔ گرٹھا۔

— مِنَ النِّعَمِ۔ بہت جانور۔

دَعَجَتْ (س) دَعَجًا — الْعَيْنُ — آنکھ

کا بہت سیاہ اور بڑی ہونا۔

اَدْعَجُ — سیاہ اور بڑی آنکھ والا۔

مؤنث۔ دَعَجَاءُ۔ ج۔ دُعَجٌ۔

الدَّعْجَاءُ — قری ماہ کی اٹھائیسویں شب

الدَّعْجَلَةُ — آنکھ کی سیاہی اور

فراخی — لیل اَدْعَجٍ — تاریک

رات۔

الْمَدَّعُوْجُ — مجنون۔

دَعْدَعٌ — دَعْدَعَةٌ وِدَعْدَاعًا۔

آہستگی سے دوڑنا — الْجَفْنَةُ

برتن بھرنا — الْمَكْيَالُ۔

پیماں کو ہلانا تاکہ اس میں چیز زیادہ

سملے۔

تَدَعْدَعٌ — بڑھے کی طرح چلنا —

الشَّيْءُ — بھڑنا۔

دَعْدَعٌ وِدَعْدَعًا — یہ کلمہ گرنے

والے کے لیے بولا جاتا ہے۔ بمعنی

کھڑے ہو جاؤ۔

الدَّعْدَاعُ — مص۔ پست قد۔

دَعْدَرَسٌ، دَعْرًا — الْعُودُ۔ لکڑی کا

دھواں دینا اور نہ جلنا۔ بوسیدہ

ہونا۔ صفت (دَعْرٌ) —

الدَّعْدُ — چھاتی کا آگ نہ دینا۔

صفت (اَدْعَرُ)

دَعْرَفٌ، وِدَعْرَسٌ، دَعَارَةٌ۔

— الرَّجُلُ۔ کسی کا بدکار و

بد اطوار ہونا۔

تَدَعَرٌ — وَجْهُ۔ چہرہ کا داغدار ہونا۔

الرَّجُلُ۔ کسی کا بد اور شریر ہونا۔

الدَّعَرُ وَالِدَعْرَةُ وَالِدَعَارَةُ

وَالِدَعَارَةُ — شَرَاتٌ۔ خباثت

بدی۔

الدَّعَارَةُ وَالِدَعَارَةُ — بد خوئی۔

الدَّاعِرُنَا۔ شَرِیر۔ بُرَا۔ بدکار۔

ج۔ دُعَارٌ، مؤنث۔ دَاعِيَةٌ۔

الدَّاعِيَةُ — وہ کھجور کا درخت جس میں

قلم لگ سکے۔ جو گا بھانہ دیا جا

سکے۔ ج۔ مَدَاعِيْرُ۔

الدُّعُوْ — لکڑی کو کھانے والا کٹرا۔

گھسن۔ واحد (دُعْرَةٌ) رَجُلٌ

دَعْرٌ وِدَعْرَةٌ — خیانت کرنے

والا آدمی۔

دَعْسٌ (ف) دَعْسًا — الشَّيْءُ۔

روندنا — الْوَعَاءُ۔ بھڑنا۔

— مُلَانًا۔ دفع کرنا۔ دھکا

دینا۔ وِدَعْسٌ۔ بِالرُّمَحِ۔

نیزہ مارنا — الْمَرَاةُ۔ عورت کو

ذلیل و رسوا کرنا۔

دَاعَسَتْ مَدَاعَسَةً — آپس میں

نیزہ بازی کرنا۔

الدَّعْسُ۔ مص۔ نشان — طریق

دَعْسٌ۔ بہت نشانات والا

راستہ۔

الْمَدَّعْسُ۔ امید گاہ۔

الْمَدَّعْسُ وَالْمَدَّعَاثُ۔ بہت

چلنے والی سڑک۔ نیزہ۔ ج

مَدَاعِيْسٌ وَمَدَاعِيْسٌ۔

الْمَدَّعْسُ۔ نیزہ مارنے والا۔

دَعَصَهُ (ف) دَعَصًا وَاَدْعَصَهُ

قتل کرنا۔ دَعَصَهُ بِالرُّمَحِ۔

نیزہ مارنا۔

دَاعَصَهُ۔ عزت میں مقابلہ کرنا۔

تَدَعَصَ۔ اللَّحْمُ۔ گوشت کا سڑک

نیزہ نیزہ ہونا۔

الدَّعَصُ۔ ج۔ دَعَصَةٌ وَاَدْعَاصٌ۔

وَدَالِدَعَصَةٍ۔ ج۔ دَعَصٌ۔

ریت کا تودہ یا ٹیلہ۔

الْمَدَّاعِصُ۔ نیزے۔

الدَّعَصَاءُ۔ نرم اور دوسری جگہوں سے

زیادہ گرم زمین۔

دَعَقٌ (ف) دَعَقًا — الطَّرِيقُ۔

راستہ کو بہت روندنا صفت مفعولی

دَدَعَقٌ وِدَعَقٌ وِمَدَّعُقٌ،

— الْخَارَةُ۔ سب طرف

لوٹ ڈالنا — الْمَاءُ۔ پانی

کو جاری کرنا — الرَّجُلُ۔ کسی

کو فوراً مار ڈالنا۔ د —

اَدْعَقُ الْخَيْلُ، گھوڑے کے

ایڑ لگانا — عَلَيْهِمُ الْخَيْلُ۔

لوٹ ماریں کسی قوم پر گھوڑوں سے

چڑھائی کرنا۔

دَعِقٌ (س) دَعَقًا — الطَّرِيقُ۔

راستہ کا بہت روندنا ہونا۔ بہت

چلتا ہوا ہونا۔

الدَّعْقَةُ۔ چڑھائی اور شور و غل۔

الدَّعْقَةُ۔ اونٹوں کا گلہ۔ بارش کی

بوچھاڑ۔

الْمَدَّعِقُ۔ پانی بننے کی جگہ — خیل

مَدَاعِيقُ۔ لوٹ ماریں دشمنوں کو

روندے والے گھوڑے۔

دَعَكٌ (ف) دَعَكًا — الثَّوْبُ۔

کپڑے کو نرم و ملائم کرنا —

الْخَصْبُ۔ مخالف کو نرم کرنا

تسكين دینا — الجلد۔
 چڑے کو ملنا — الشیء فی
 التراب۔ مٹی میں لوٹنا۔ کما جاتا
 ہے: دَعَكَه بالقول اس نے
 اس کو بات سے دکھ پہنچایا۔
 دَعَكَ (س) دَعَكَ۔ بے وقوف
 ہونا۔ صفت (دَاْعِكُ و
 دَاْعِكَةُ) مؤنث۔ دَاْعِكَةُ
 کہتے ہیں: فلان احمق دَاْعِكَةُ
 فلاں بے قوت ہے۔
 دَاْعَكَه مَدَاْعَكَه کسی کے ساتھ
 سخت جھگڑا کرنا۔ طال مٹول کرنا۔
 تَدَاْعَكَ — القوم۔ آپس میں
 خصومت کا سنگین ہونا —
 تَدَاْعَكُوا فی الحرب۔ لڑائی میں
 باہم زور آزمائی کرنا۔
 الدَّيْعُ سخت جھگڑالو۔
 الدَّيْعُ گنہگار۔ کمزور۔ ایک قسم کا
 پرندہ۔
 الدَّيْعَةُ راستہ کا بڑا حصہ۔
 اُمْدُ عَلَّكُ وَالْمُدَّ عَلَّكُ سخت
 جھگڑا و دشمن۔
 دَعَلَه (ض) دَعَلَا۔ دھوکہ دینا۔
 — دَاْعَلَه۔ ایک دوسرے
 کو دھوکہ دینا۔
 الدَّاعِلُ بھلگئے والا۔ دھوکہ دینے والا
 دَحْكَمَ دَحْكَمَةً۔ اللیل۔ رات کا تاریک
 ہونا۔ الشیء کسی شے کے
 رنگوں کا مخلوط ہونا۔ الوجل۔
 کسی کا بار بار آنا جانا۔ الشیء
 کسی شے کو لڑھکانا۔
 الدَّعْلَجُ بھری ہوئی گون۔ گھنی اور
 گنجان نباتات۔ خوش رونازک
 بدن جوان۔ تاریکی۔
 دَحَحَدَف دَحَحَا۔ الشیء جھک

جانے کے ڈر سے ٹیک لگانا۔
 سہارا لینا — دَعَرَ کرنا۔ تقویت
 پہنچانا۔
 الدَّعَحَ ستون سے سہارا لینا۔
 ٹیک لگانا۔
 تَدَاْعَمَ الامرُ فُلَانًا۔ ہجوم کرنا۔
 الدَّعْمَةُ ج دَعَمٌ ودالدَّعَامُ
 ج۔ دُعْمٌ۔ ودالدَّعَامَةُ ج
 دَعَائِمٌ گھڑکاستون۔ کڑی کا
 کہنا جو چھت کو سہارا دینے کے
 لیے کھڑا کیا جائے۔ الدَّعْمَتَانِ
 والدَّعَامَتَانِ چرخ کے ہر دو
 رُخ کے ڈنڈے۔ دَعَامَةُ
 القوم۔ قوم کا سردار۔
 الدَّعْمِيُّ بڑھئی مضبوط سہارا دی ہوئی چیز
 راستہ کا بڑا حصہ۔ قَرْسٌ (دَاْعَمَدُ
 دُعْمِي) سفید سینہ والا گھوڑا۔
 اُمْدُ عَمٍ پناہ گاہ۔
 دَعْمَصُ الماءُ پانی کا سیاہ
 کیڑوں والا ہونا۔
 الدَّعْمُوصُ پانی کا سیاہ کیڑا جو
 تالابوں میں پانی کم ہونے پر دکھائی
 دیتا ہے۔ عوام اس کو اَلْبَلْعُط
 کہتے ہیں۔ ج۔ دَعَا مِصْ و
 دَعَا مِصْ۔
 دَعَنَ (ف) دَعَنًا۔ محول کرنا۔
 شوخی کرنا۔
 الدَّعْنُ شَوْخٌ مخولی۔ ج۔ دَعْنَةٌ
 دَعَادَن دُعَاءٌ و دَعْوَى — ہ
 پکارنا۔ رغبت کرنا۔ مدد چاہنا۔
 — ہ الی الامر۔ کسی کو کسی
 کام کی طرف چلانا — بلہ۔
 حاضر ہونے کے لیے کہنا —
 دَعَا فُلَانًا دَبْقَلَان۔ نام رکھنا
 — المیت۔ میت پر رونا۔

دَعَا — دَعَوَةً و مَدْعَاً کسی
 کو کھانے پر بلانا۔ (دَعَاءٌ)
 لَعَا۔ کسی کے حق میں دے لے خیر
 کرنا۔ علیہ۔ کسی کے حق میں
 بددعا کرنا — الیہ۔ کسی
 چیز کی طرف بلانا۔
 دَعَا مَدْعَاً جھگڑا کرنا۔ ایک
 دوسرے سے پہلی یا چیرستان
 کہنا — الدَّحَائِظُ دیوار کو
 گرانا۔
 اَدْعَاہُ اِدْعَاءً۔ غیر باپ کی طرف
 منسوب کرنا۔
 تَدَاعَتْ تَدَاعِيًا۔ التَّائِحَةُ۔ بلند
 آوازی سے رونا۔
 تَدَاعَى — العدُو۔ دشمن کا متوجہ
 ہونا — القوم۔ ایک دوسرے
 کو بلانا۔ تَدَاعَا الشیء۔ کسی
 چیز کا دعوئے کرنا۔ تَدَاعَتْ
 الحیطان۔ دیواروں کا پھٹ
 جانا۔ تَرُخَ جَانَا — القوم
 علیہ۔ قوم کا کسی سے دشمنی رکھنے
 میں متفق ہونا۔
 اِنْدَعَى اِنْدَعَاءً۔ الدَّعْوِيَّة۔ پکار
 کا جواب دینا۔ دعاء قبول کرنا۔
 اِدْعَى — الشیء۔ حق یا باطل کا دعویٰ
 کرنا — بلہ۔ اپنی طرف نسبت
 کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ میری ہے۔
 — علیہ۔ قاضی کے پاس کسی
 کے خلاف مقدمہ کرنا۔ دعویٰ کرنا
 — الی غیریہ۔ باپ
 کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب
 ہونا — الشیء۔ تمنا کرنا۔
 — اِدْعَى فی الحرب۔ جنگ
 میں اپنا نسب نامہ بیان کرنا۔
 اِسْتَدْعَاہُ اِسْتِدْعَاءً کسی کو پکارنا۔

— الشیء۔ طلب کرنا۔ لازم سمجھنا۔
الدَّعَاءُ دَعَا کا مصدر۔ ج ادْعِيَّةُ الدَّعْوَةُ۔ پکار قسم۔ کہتے ہیں۔ ہو مِثْقَالِ دَعْوَةٍ الرَّجُلِ۔ وہ مجھ سے قریب ہیں جس طرح کہتے ہیں۔
هُوَ مِثْقَالُ رَمِيَّةِ السَّهْمِ وَ مَزْجًا لِكَلْبٍ وَ لَكُمُ الدَّعْوَةُ عَلَى غَيْرِهَا۔ یعنی دعار میں انہیں سے ابتداء ہے۔ وَ كُنَّا فِي دَعْوَةٍ فَلَاذٍ ہم فلاں کی ضیافت و مہمانی میں تھے۔ وَ الدَّعَاوَةُ وَ الدَّعَاوِيُّ۔ مقدمہ۔ دعوے۔ ج۔ الدَّعَاوِيُّ وَ الدَّعَاوِيُّ۔ بہت دعا کرنے والا۔
الْأُدْعِيَّةُ وَ الْأُدْعُوَةُ۔ جھگڑے کا موضوع۔
الدَّعِي۔ لے پالک۔ متبنی۔ جس کی نسبت میں شبہ ہو۔ وہ جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف یا غیر قوم کی جانب منسوب کرے۔ ج۔ ادْعِيَاءُ۔
الدَّاعِي۔ فَا۔ لوگوں کو اپنے دین و مذہب کی طرف بلانے والا۔ ج۔ دُعَاةٌ۔ مُؤَنَّثٌ۔ دَاعِيَّةٌ۔ ج۔ دَاعِيَاتٌ وَ دَاعِيَةٌ۔ دَاعِيَّةٌ (الدَّاعِيَّةُ)۔ سبب۔ ج۔ الدَّاعِي۔ دَاعِي اللَّبَنِ وَ دَاعِيَتُهُ۔ وہ تھوڑا سا دودھ جو تھنوں میں چھوڑ دیا جائے تاکہ بقیہ دودھ آسانی سے دودھ سکیں۔
دَوَاعِي الصَّدْرِ۔ افکار و ہوم۔ دَوَاعِي الدَّهْرِ۔ زمانہ کی گردشیں۔ الْمَدْعَاةُ۔ کھانے کی دعوت۔ سبب۔

دُعِدَ دَعْدَعَةً۔ فَلَانًا بِكَلِمَةٍ کسی کو طعنہ دینا۔
الدَّعْدَعَةُ رُكْبَانٌ كَفْتُكَو كَرْنَا۔ گدگدی چلانا۔ مثلاً پاؤں کے تلوے یا بغل کو گدگدانا۔ عام لوگ گدگدی کو زُكُوكٌ اور زُكُوكَةٌ بولتے ہیں۔
الْمَدْعُوَةُ۔ حسب و نسب میں کھوٹ رکھنے والا۔
دَعْوَةٌ (دَف) دَعْوًا۔ دفع کرنا۔ دھکیلا دَعْوَتِ الْمَرْأَةِ حَلْقُ الصَّبِيِّ عورت کا بچہ کے حلق کو انگلی سے دبانا۔ الْأُمُّ ابْنُهَا۔ ماں کا بچہ کو دودھ سے سیر نہ کرنا۔ دَعْوَةُ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ۔ ایک شے کو دوسری میں خلط ملط کرنا۔ طَانَا۔ ہ۔ گلا گھونٹ کر مارنا۔
— فِي الْبَيْتِ۔ گھر میں داخل ہونا۔ علیہ کسی پر اچانک آنا۔
دَعْوَر (دَس) دَعْوًا۔ الرَّجُلُ بِدَعْوَةٍ اور لٹیم ہونا۔ صفت (دَاعِيٌّ) دَعْوَر (دَس) دَعْوًا وَ دَعْوِيٌّ۔ علیہ۔ لوگوں پر اچانک پہنچ جانا۔
لَا تُدْعُو۔ پہنچ جانا۔ علیہ۔ ایک بیک آ جانا۔
الدَّاعِي۔ ذلیل۔ حقیر۔ بد فساد انگیز۔ الدَّعْوَةُ۔ کسی شے کو اچک لینا۔ اِلْمُدْعُوَةُ۔ گھسان کی لڑائی جس میں لوٹ مار ہو۔
دَعَش (دَف) دَعَشًا وَ دَعَشِيٌّ۔ تاریکی میں داخل ہونا۔ دَعَشِيٌّ۔ علیہ۔ اچانک ٹوٹ پڑنا۔ ہجوم کرنا۔

دَاعَشَهُ۔ بھیڑ کرنا۔ حَوْلُ الْمَاءِ۔ پیاس میں پانی کے ارد گرد گھومنا۔ الْمَاءُ۔ پانی کو تیزی سے پی جانا۔ فِي الشَّيْءِ۔ حرص کے باعث کسی سے کوئی چیز مکر سے طلب کرنا۔
تَدَاعَشَ۔ الْقَوْمُ۔ وَ دَعَوُ شَوْلُ لڑائی وغیرہ میں آپس میں گتھ جانا۔ دَعِص (دَس) دَعَصًا۔ کھانے یا غصہ سے بھر جانا۔
دَاغَصَ مَدَاغَصَةً۔ فِي الْحَبْلِ کام میں تیزی برتنا۔
أَدَغَصَهُ۔ غصہ سے بھر دینا۔
أَدَغَصَهُ الْمَوْتُ۔ موت کا ایک بیک آن لینا۔
الدَّاعِصَةُ۔ گھٹنے کی چپنی۔ عوام اس کو "صَابُونَةُ الْوُكْبَةِ" کہتے ہیں۔ گٹھا ہوا گوشت۔ خالص صاف پانی۔ ج۔ دَوَاعِصُ۔
الدَّغَصَانُ۔ غضبناک۔
دَغَف (دَف) دَغْفًا۔ الشَّيْءُ۔ سختی سے پکڑنا۔ دَغَفَهُمُ الْحَرُّ۔ گرمی کا سخت ہونا۔
أَبُو الدَّغَفَاءِ۔ احمق۔
الدَّغْفَلُ۔ ہاتھی یا بھیڑیے کا بچہ۔ بہت سے پر۔ عَيْشٌ دَغْفَلِيٌّ۔ آسودہ زندگی۔ عام دَغْفَلِيٌّ۔ سرسبز سال۔
دَغَل (دَف) دَغَلًا۔ متم کے مانند داخل ہونا۔
أَدَغَلَ۔ الرَّجُلُ۔ کسی کا گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو کر غائب ہو جانا۔ الْأَرْضُ۔ گھنے درختوں والی ہونا۔ بے۔ کسی کے ساتھ خیانت کر کے اچانک



مارڈالنا۔ چغلی کھانا۔ الشیء۔ کسی چیز میں مخالفت اور اس کی مفسد چیز ملانا۔

الدَّغْلُ۔ جر۔ اَدْغَالٌ وِدَغَالٌ و (الدَّغِيلَةُ) گنجان درختوں کا بھنڈ۔ وہ چیز جو کسی کام میں داخل ہو کر اس کو خراب کر دے۔ وہ مقام جہاں ہلاکی کا خطرہ ہو۔ مَكَانٌ (دَغْلٌ)۔ گھنے درختوں والا مقام۔ پوشیدہ جگہ۔

الدَّاغِلَةُ۔ پوشیدہ کہنہ۔ وہ لوگ جو کسی کی خیانت و عیب کی تلاش میں رہیں۔

الدَّوَاغِلُ۔ آفتیں بمبیتیں (اس کا واحد نہیں)۔

المدَّغْلُ۔ وادی کا درمیانی حصہ۔ دَغْمُهُمْ وِدَغْمُهُمْ (ن س) دَغْمًا وِدَغْمَانًا۔ الحَرُّ أَوِ الْبَرْدُ۔ گرمی یا سردی کا لگنا۔ دَغْمَ آفَتِهِ۔ ناک توڑنا۔ دَغْمَ الرِّئَاءِ۔ برتن ٹوہا پینا۔

أَدَغَمَ۔ اللہ فلاناً۔ اللہ اس کا کلام نہ کرے۔ ذلیل و رسوا کرے۔ أَدَغَمَهُمُ الْحَرُّ أَوِ الْبَرْدُ۔ ان کو گرمی یا سردی لگی۔ الْفَرَسُ الْيَبَامُ۔ گھوڑے کے منہ میں لگام دینا۔ أَدَغَمَهُ الشَّيْءُ۔ کسی شے کا کسی کو دکھ پہنچانا۔ (ر) وَاَدَغَمَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ۔ ایک شے کو دوسری میں داخل کرنا۔ صرف کی اصطلاح میں ادغام بھی اسی سے ہے کیونکہ اس میں بھی ایک حرف دوسرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اِدْغَامُ الْفَرَسِ۔ (اِدْغِيمًا مَّا) گھوڑے کا منہ باقی جسم سے

زیادہ سیاہی مائل ہونا۔ صفت (أَدَغَمَ) الدَّغْمُ وَاَلدُّغْمَةُ۔ گھوڑے کا رنگ جس کا منہ زیادہ سیاہی مائل ہو۔

الْأَدَغْمُ۔ کالی ناک والا۔ ناک میں بولنے والا۔ خَفِئْنَا۔ جر۔ دَغْمُ الدُّغَامُ۔ طلق کا درو۔

دَغْمَرَجَ۔ دَغْمَرَجَ۔ عیب لگانا۔ الشَّيْءُ۔ ملانا۔ الرجلُ بدخلق ہونا۔

الدَّغْمَرَجِيُّ وَاَلدُّغْمَرَجِيُّ۔ ملے ملے اخلاق والا۔

الدَّغَامِرُ۔ قوم کے ذلیل لوگ۔ دَغَمَ (ن) دَغَمًا وِدَغِمًا۔ آہستہ چلنا۔ لُءِ الْأَمْرِ۔ تیار ہونا

ممکن ہونا۔ الطَّائِرُ۔ پرندہ کا پر پھڑپھڑانا۔ دَغَمَ (ن) دَغَمًا۔ الشَّيْءُ۔ جڑ سے اکھیڑنا۔

دَغَمَ وِدَغَمَ۔ جلدی کرنا۔ دَغَمَ الْجَرِيحُ وِدَغَمَهُ وِدَغَمَ عَلَيْهِ۔ زخمی کو جھٹ پٹ مار ڈالنا۔

دَغَمَ الرجلُ۔ دف بجانا۔ آدَمَ۔ اِدْغَامًا۔ الطَّائِرُ۔ پرندہ کا اپنے پر پھڑپھڑانا۔ آدَمَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ۔ کسی پر کاموں کا پے درپے آنا۔

تَدَغَمَ القَوْمُ مَبْعُضُ كَالْبَعْضِ کے پیچھے سوار ہونا۔ اِسْتَدَغَمَ الطَّائِرُ۔ پرندہ کا زمین کے قریب ہو کر اڑان کرنا۔

الامرُ۔ کام کا درست ہونا۔ پورا ہونا۔ ممکن ہونا۔ الرجلُ بالْمَوْسَى۔ اُسٹرے سے مونڈنا۔

الدَّغْتُ۔ مع۔ ہر چیز کا پہلو۔ کہتے ہیں۔ ”رَمَاهُ اللَّهُ بِذَاتِ الدَّغِ“ اللہ اس کو ذات الجنب (منویا) کی بیماری میں مبتلا کرے۔ (ر) وَاَلدُّغْتُ، دَغْتُ۔ دَغْلًا۔ ج دُخُوتٌ۔

الدَّغَةُ۔ ہر شے کا پہلو۔ دَغْتُ الطَّلِيلِ ڈھول کے ہر دورخ کے چمڑے جن پر بجانے کے لیے ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ پتوار۔ یہ کلمہ مولدہ ہے۔ اس کے لیے فصیح لفظ السَّكَّانُ ہے۔

الدَّاقَةُ۔ فوج جو دشمن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھے۔ خانہ بدوش لوگ۔

الدَّقَاتُ۔ دف بجانے والا۔ دف بنانے والا۔

الدَّقُوتُ۔ کسی چیز پر چھٹنے کے وقت زمین سے قریب ہو جانے والا پرندہ کہتے ہیں۔ عَقَابٌ دَقُوتٌ۔

دَغَمَ يَدًا دَغَمًا وِدَغَمًا وِدَغَمًا۔ يَدًا دَغَمًا دَغَمًا (ن س)۔

مِنَ الْبَرْدِ۔ گرم ہونا۔ گرمی پانا۔ یا محسوس کرنا۔

دَغَمَ۔ گرم کرنا۔ آدَمَ۔ گرم کپڑا پہننا۔ بہت دینا۔ گرم کرنا۔

الاجْرِيحُ۔ زخمی کو مار ڈالنا۔ القَوْمُ۔ قوم کو جمع کرنا۔

تَدَغَمَ وَاِدْغَمًا وَاِسْتَدَغَمَ۔ گرم کپڑا پہننا۔ گرم ہونا۔

الدَّقْتُ۔ سخت گرمی۔ ج اِدْغَاءً۔ اونٹوں سے پیدا شدہ بچے اور حاصل کردہ نفع۔ عطیہ۔ دَغْتُ الْحَاظِطِ دیوار کی پناہ کہتے ہیں۔ اُقْعِدَ

فِي دِحْطِ الْحَاظِطِ۔ وہ دیوار کی

پناہ یا اورٹ میں بٹھایا گیا گرمی حاصل کرنے کا سامان کہتے ہیں۔
 ”مَا عَلَيْهِ دَفْعٌ“ اس پر گرمی حاصل کرنے کا کوئی سامان نہیں۔
 الدَّفْعُ: معص۔ شانوں کا سینہ کی طرف جھکنا۔
 الدَّفْعَاءُ: گرم کپڑے۔ گرمی حاصل کرنے کا سامان۔
 الدَّفْءُ وَالذَّفْءُ: المُسْتَدْفِی - گرمی حاصل کرنے والا۔ گرم لباس پہننے والا۔ مؤنث۔ دَفْعَةٌ وَدَفِئَةٌ الدَّفِئَةُ مِنَ الدَّرَابِجِ - گرم زمین۔
 الدَّفْءَانِ: گرمی حاصل کرنے والا۔ مؤنث۔ دَفْءَانِ - الدَّفْءَانُ: وہ شخص جس کے شانے سینہ کی طرف جھکے ہوئے ہوں۔ مؤنث۔ دَفْءَانِ - الدَّفْءَانُ: خیمہ نشین آدمی۔ اَرْضٌ (مَدْفَأَةٌ) گرم زمین۔ اِبِلٌ (مَدْفِئَةٌ) وَ مَدْفَأَةٌ وَ مَدْفِئَةٌ وَ مَدْفَأَةٌ بہت اون اور چربی والا اونٹ۔
 الدَّفْعُ: رجسٹر۔ حساب کی کتاب۔ لکھنے کی کتاب۔ ج۔ دَفَائِرُ۔ دَفْدَفَ - جلدی کرنا۔ الطَّائِرُ پرندہ کا زمین سے قریب ہو کر اڑنا۔
 الدَّفُوفُ: دف جلدی جلدی بجانا۔
 دَفْعُهُ (ن) دَفْعًا - سینہ پر مار کر دھکیلنا۔
 دَفِئَرَس) دَفْرًا وَ دَفْرًا - ذیل ہونا۔ اللحم - گوشت میں کپڑے پڑنا۔ الشَّيْءُ کسی شے کا بدبودار ہونا۔ صفت (دَفِئٌ وَادْفِئٌ) مؤنث دَفِئَةٌ

وَدَفْعًا۔
 اَدْفَرُ - الرجل - کسی کی بغل کا ٹٹنا کدہ بغل ہونا۔
 الدَّفْعُ: معص۔ بدبو۔
 دَفْءَانِ - ربنی علی الکسر دنیا۔ لونڈی باندی۔ یہ اکثر نڈا کے موقع پر آتا ہے اور لونڈی کے لیے گالی سمجھا جاتا ہے۔ اَمْدُ دَفْءَانِ وَ اَمْدُ دَفْءَانِ - دنیا مصیبت۔
 دَفْعَهُ (ن) دَفْعًا وَ دَفْعًا وَ دَفْعًا مَدْفَعًا - بٹانا۔ دور کرنا۔ رو کرنا۔ دَفْعَهُ فِي كَذَا - داخل کرنا۔
 الیہ الشَّيْءُ - ادا کرنا۔
 القَوْلُ: کسی بات کو دلیل و حجت سے باطل کرنا۔
 الی کذا - مجبور کرنا۔
 الِاذْی - کسی کو اذیت سے بچانا۔
 عَنِ الْمَوَاضِعِ: کسی جگہ سے کوچ کر جانا۔ الیہ - کسی جگہ پہنچنا۔ کہتے ہیں ”طریق ینْدَفِعُ“ الی مکان کذا۔ راستہ جو فلاں جگہ تک پہنچتا ہے۔
 دَفِئَع - الی المکان - کسی جگہ تک پہنچنا۔
 دَفْعَهُ مَدْفَعًا وَ دَفْعًا - بٹانا مزاحمت کرنا۔
 عنہ - حمایت کرنا۔ مدد کرنا۔
 الِاذْی - کسی سے اذیت دور کرنا۔
 دَفْعَهُ عَنْ حَقِيقَةٍ - ٹال مٹول کرنا۔
 تَدْفَعُ - السَّيْلُ - سیلاب کا زور سے ہٹانا۔
 اِنْدَفَع - السَّيْلُ - سیلاب کا زور سے ہٹنا۔
 الفرس فی سیرہ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔
 الرجلُ فی الحدیث کسی کا بات چیت میں لگنا۔ اِنْدَفَعَ - یقول - وہ کہنے لگا۔
 اِنْدَفَعُ الرجلُ - ایک طرف ہونا۔

تَدْفَعُ - القوم - بعض کا بعض کو بٹھانا۔
 ایک دوسرے کو دھکیلنا۔
 تَدْفَعُوا الشَّيْءَ - کسی شے کو ایک دوسرے کے ذمہ لگانا۔
 کہتے ہیں ”ضیفٌ یتَدَفَعُ“ الِاحْتِج - وہ تھان جس کو قبیلہ کے لوگ ایک دوسرے کے ذمہ لگائیں۔ ایک دوسرے پر ٹالیں۔
 اِسْتَدْفَعُ - اللّٰهُ الشَّيْءَ - اللّٰہ تعالیٰ سے برائی ٹالنے کی التجا کرنا۔
 الدَّفْعَةُ - بارش کی بوچھاڑ۔ مشک یا برتن سے ایک مرتبہ گرمی ہوئی چیز کی مقدار۔ ج۔ دَفْعٌ وَ دَفْعَاتٌ۔
 الدَّفْعَةُ - دفع کا اسم مرہ۔
 الدَّفْعُ: جھیلین۔ شبیہ مقامات جہاں سیلابوں کا پانی جمع ہو جائے۔
 الدَّفُوعُ - بہت بٹانے والا۔
 الدَّفَائِبُ - لات مارنے والا۔ جانور۔
 الدَّفْعُ - بہت بٹانے والا۔
 الدَّفْعُ: موج یا سیلاب کا زور۔
 لوگوں کی بھیڑ۔ کہتے ہیں ”جَاءَ فِي دَفَائِعِ مِنَ النَّاسِ“ وہ لوگوں کے ہجوم میں آیا۔
 المَدْفَعُ - پانی کے بہاؤ کی جگہ۔ ج۔ مَدْفِعٌ۔
 المَدْفَعُ - بٹانے کا آلہ۔ ٹوپ۔ ج۔ مَدْفِعٌ۔ بہت بٹانے والا۔
 المَدْفَعُ - وہ ذیل و حقیر فقیر جس کو نہ کوئی تھان رکھے، نہ بخشش ملے۔
 دَفَقَ (دضن) دَفَقًا - الماء - پانی کو زور سے گرانا۔ اللّٰهُ رُوْحًا - اللّٰہ نے اس کو مار دیا۔
 اَلْكُؤُش - کوزہ کی چیز کو گرا کر خالی کر دینا۔



دَقَّقَ (ن) دَفَّقَاوَدُفُّوْا — المَاءُ —
پانی کا گرنا۔ بَنَّا — النَّهْرُ —
دریا کے پانی کا کناروں سے اہل
پڑنا۔ جمہور کے نزدیک یہ متعدی ہی
کی صورت میں مستعمل ہے۔
دَقَّقَ — دَفَّقَ کا مبالغہ۔ کہتے ہیں
”دَقَّقَتْ كَلَامَهُ الْعَطَاءُ“ اس
کے دونوں ہاتھوں نے بخشش بکثرت
کرائی۔
أَدَقَّقَ — اَلْكُوْزُ — کوزہ کو چیز سے
خالی کر دینا۔
تَدَقَّقَ وَاسْتَدَقَّقَ — المَاءُ —
گرنا — الدَّابَّةُ — جانور کا
تیز دوڑنا۔ کہتے ہیں ”فَلَانٌ
يَتَدَقَّقُ فِي الْبَاطِلِ“ — فلاں
باطل میں تیزی و سبقت کرتا ہے۔
اِنْدَقَّقَ وَاسْتَدَقَّقَ — المَاءُ — گرنا۔
الدَّفْقَةُ — ایک دفعہ کا ڈالنا یکبارگی
آجانا کہتے ہیں ”جَاوَا دَفْقَةً“
وہ سب ایک دم آگئے —
سِيلٌ دُقَائِيٌّ — زبردست
سیلاب جو دلدی کو دونوں کناروں
تک بھر دے
الَادُقُقُ — ٹیڑھا۔ کوزہ پشت، خواہ
غم و فکر سے یا بڑھاپے کے سبب
سیرُ أَدَقَّقُ — تیز رفتاری سے
دَفَّقَاوَدُفُّوْا —
الدَّفْقَةُ — تیز چال۔ کہتے ہیں ”مشي
الدَّفْقِي“ وہ تیز چال چلا۔
د — والدَفْقَةُ — تیز چلنے والی
اونٹنی یا گھوڑا۔
الدَّفْلُ — رال قطران۔
الدَّفْلِي — کبیر۔ اس کا الف مقصورہ
بعض کے نزدیک الحاقی ہے لہذا
اس پر تنوین تنکیر آجائے گی۔ اور

بعض کے نزدیک تانیث کا ہے۔
لہذا تنوین بھی نہ آئے گی۔
دَقَّنَ (ض) دَقَّنَا — المِيتَ — مردہ
کو دفن کرنا — الحدیث
بابت کو چھپانا — الابل —
اونٹ کو تیز چلانا — الابل —
اونٹ کا تیز چلنا۔
تَدَقَّنَ وَاسْتَدَقَّنَ — چھپنا۔ دفن
ہونا — الابل — اونٹ کا
تیز رفتاری سے چلنا۔
اِدَقَّنَ — العبدُ — غلام کا آقا کے
خوف سے بھاگ کر روپوش ہونا
سَفَتَ دَقُونٌ — الشَّيْءُ
چھپانا۔
تَدَاقَّنَ — القومُ — ایک دوسرے
سے چھپانا۔
دَقِّنَ — الامر — معاملہ کا اندرونی حصہ
الدَّفْقُ — مص — دفن کیا ہوا۔ ج
أَدَقَّنَ — مدفون زمین ج دَقَّنَ
دَاءٌ دَقِّنٌ وَدَقِّنٌ — وہ بیماری
جو پوسیدہ ہونے کے بعد ظاہر ہو
کر خرابی پیدا کرے۔
الدَّفْقِيْنَةُ — گاڑی ہوئی چیز۔ زمین میں
گڑا ہوا خزانہ ج دَقَائِنُ — کہتے
ہیں ”فَلَانٌ يُشِيرُ الدَّقَائِنَ“
وہ بڑی گہری عقل و سمجھ والا ہے۔
الدَّفْقِيْنُ — دفن کیا ہوا۔ چھپایا ہوا۔ ج
دَقِّنٌ وَدَقْنَاءٌ وَدَقَائِنٌ — حوض
— دَقِيْقَةٌ دَقِيْنٌ — دفن کیا
ہوا کنواں — اَمْرًا دَقِيْنٌ —
چھپی ہوئی عادت۔ ج۔ دَقْنَاءُ —
— دَاءٌ دَقِيْنٌ — وہ بیماری
جو پوسیدہ ہونے کے بعد ظاہر
ہو کر خرابی پیدا کرے۔ کہتے ہیں
هُوَدَفِيْنُ المَرْدُوْعَةُ — او

دَقِّنُ المَرْدُوْعَةُ — وہ مروت نہیں
رکھتا۔
الدَّقَانُ — مِنَ التَّرْكَائِيَا — مٹی کے
نیچے دبا ہوا کنواں۔ ج۔ دَقْنٌ —
— مَاءٌ دَقَانٌ — پوشیدہ پانی
— الدَّقَائِنُ — کشتی کے تختے
واحد (دَقَانٌ)
الْمَدَقْنُ — دفن کرنے کی جگہ۔
الدَّفْنِيسُ وَالدَّفْنِيسُ — بخیل
کمینہ۔ بے وقوف — مِنْ
النِّسَاءِ — احمق، بیماری جسم کی
عورت۔
دَقَانٌ دَقْوَاوَدَقَانِيٌّ مُدَاخَاةٌ وَ
أَدَقْنِيٌّ اِدْقَاءٌ — الْجَرِيحُ —
زخمی کو جلد مار کر ختم کر دینا — وَ
أَدَقْنِيٌّ الطَّبِيُّ — ہرن کا سینگوں
والا ہونا۔
تَدَاخَاةٌ — تدارک کرنا۔ تلافی کرنا
الدَّقَاءُ — حباک و خمیدگی۔
الَادُقْفِيٌّ — مخنی۔ ٹیڑھا۔ مؤنث
دَقْوَاءٌ — طائرُ أَدَقْنِيٌّ
بے بازوؤں والا پرندہ۔ نَاقَةُ
دَقْوَاءُ — بلی گردن کی اونٹنی۔
شَجَرَةُ دَقْوَاءُ — بڑا درخت۔
عَقَابٌ دَقْوَاءُ — مڑی ہوئی چوچ
والا عقاب۔
دَقِّي (ض) دَقِيْقَةٌ — باریک ہونا۔ چھوٹا
ہونا۔ دشوار فہم ہونا۔
دَقِّي (ن) دَقَّا — الشَّيْءُ — توڑنا۔
— الْبَابُ — دروازہ کھٹکھٹانا
— الشَّيْءُ — ظاہر کرنا —
الشَّيْءُ عَلَى الشَّيْءِ وَابِلِ الشَّيْءِ — ایک چیز
کو دوسری چیز پر کوٹنا۔ کچلنا۔
دَقَّقَ — الشَّيْءُ — کسی چیز کو باریک کوٹنا
کوٹ کر باریک کرنا — رَفِي

الحِسَابِ وَغَيْرِهِ - حساب
وغیرہ میں گہری غور و فکر سے کام

لینا
أَدَقَّهُ - اِدْقَاقًا - باریک کرنا -
الرجل - کسی کو بکری دینا کہتے
ہیں "أَتَيْتُهُ فَمَا أَدَقَّنِي وَ
لَا أَجَلَّنِي - یعنی میں اس کے
پاس آیا تو اس نے مجھ کو تھوڑا بہت
کچھ نہیں دیا - أَدَقَّ الرَّجُلُ -

بخل سے حقیر چیز کا پیچھا کرنا
دَقَّقْتُهُ مَدَاقَةً - الحِسَابِ وَ
فِي الحِسَابِ - حساب کی غور و
تفصیل سے جانچ و پڑتال کرنا
إِنْدَقَّ - اِنْدَقَاقًا - باریک ہونا
ٹوٹنا کھٹکھٹایا جانا

تَدَاقَى - الرَّجُلَانِ - آپس میں
باریکی میں مقابلہ کرنا
إِسْتَدَقَّ - اِسْتَدْقَاقًا - باریک
یا پتلا ہونا اور اِسْتَدَقَّ
الِهَلَالُ - بھی اسی سے ہے یعنی
چاند باریک ہے

الِدِقُّ - باریک - تھوڑا - اسی سے
ہے "أَخَذْتُ دِقَّةً وَجِلَّةً
میں نے اس سے تھوڑا بہت
سب لے لیا - حَتَّى الدِّقِّ
دق کا بخار
الدَّقَّةُ - ایک ضرب - ایک دفعہ
کا توڑنا

الدَّقَّةُ بَارِكِي - چھوٹا پن - کینگی
تپ دق کی حالت اور اسی سے
ہے "دِقَّةُ الْمَعَانِي" معانی کی
باریکی
الدَّقَّةُ بَارِكِي خَاكٍ - مصالحو
مک - دھنیا -
الدَّقَاقُ - ہر شے کا چورا - آٹا -

وَالدَّقَاقَةُ نَزْمٌ رِيتٌ جَسٌ كُوْهُوَ
اِطْلَعُ "دَقَاقُ الْعَيْدَانِ وَ
دَقَاقُهَا" لکڑی کی چھپٹیاں
الدَّقِيقُ - باریک - آٹا - دشوار فہم امر -
تھوڑا - ج - أَدَقَّةٌ وَأَدْقَاءُ -
مؤنث - دَقِيقَةٌ -

الدَّقِيقَةُ - الدَّقِيقُ كَامُونُث
منٹ ایک گھنٹہ کا ساٹھواں
حصہ - ج - دَقَائِنُ - الدَّقِيقَةُ
بکریاں کہتے ہیں "كَحْدَقِيقَتِكَ"
بھاری کتنی بکریاں ہیں
الدَّقَاقُ - بہت کوٹنے والا - آٹا پیچنے
والا -

الدَّقَاقَةُ - کوٹنے کا اوزار -
الْمَدَقُّ وَالْمَدَقُّ - ج - مَدَاقُ
وَدَالْمَدَقَّةُ - کوٹنے کا اوزار -
کوٹنے کی موصلی یادستہ -
الْمَدَقَّةُ - باریک کوٹا ہوا گوشت
کباب - عام لوگ اسے کوٹتے
کہتے ہیں

الْمَدَقُّوقُ - دق کے بخار کا مریض
مُسْتَدَقُّ - السَّاعِدُ - کلائی کا
پہنچے سے ملنے والا باریک حصہ
ہر شے کا باریک اور پتلا حصہ
دَقْدَقُ دَقْدَقَةٍ - النَّاسُ - آدمیوں
کا شور و غل مچانا - الدَّوَابُّ
جانوروں کا اپنے سموں سے پٹ
پٹ کی آواز نکالنا

دَقْرُ دَسٍ - دَقْرًا - کھانے سے بھر
جانا - الْمَكَانُ - کسی جگہ کا
سر سبز و شاداب ہونا - النَّبَاتُ
سبزہ کا بکثرت ہونا
الدَّقْرُ وَالْدَقْرَةُ - الدَّقِيقَةُ - و
الدَّقْوَى - نہایت خوش منظر -
ہر ابھرا باغ - اَرْضٌ دَقْرَاءُ

سر سبز و شاداب اور تر زمین -
الدَّقْوَانُ - وہ لکڑی جس کو نصب کر
کے انگور کی پیل چسڑھاٹی جائے -
واحد (دَقْوَاكَةً)
الدَّقْرَةُ - پہاڑوں کے درمیان بنجر
زمین -

الدَّقْرَةُ - چغلی - بری عادت - جھگڑا
ج - دَقَارِيْرُ - کہتے ہیں "جَاءَ
بِالدَّقَارِيْرِ" اس نے قبیح جھوٹی
باتیں کہیں - رجلٌ دَقْرَارَةٌ -
چغل خور آدمی -

دَقَسَ دَنٌ دَقَسًا دَقُوسًا - رَی
الْبِلَادِ - ملک میں گھس جانا -
الْوَتْدُ فِي الْأَرْضِ - میخ کا
زمین میں گر جانا - الْبِئْرُ - کنویں
کو بھرنا -

الدَّقْشَةُ - گرگٹ سے چھوٹا چنگبرا
جانور -
دَقَعَ دَسٌ دَقْعًا - تھوڑے سے گزارہ
پر راضی ہونا - فقر و ذلت کے باعث
خاک نشین ہونا -

أَدَقَّعَهُ - فقیر بنانا - ذلیل کرنا - أَدَقَّعَ
بِهِ وَآلِيهِ فِي الشَّتْوِ وَخَوْه
گالی دینے میں زیادتی سے کام لینا -
أَدَقَّعَ الرَّجُلُ - مٹی میں ملا ہوا ہونا -
الدَّقِيعُ - غمگین - تھوڑی روزی کا خواہاں
الْأَدَقُّ - مٹی - جَوْعٌ أَدَقُّ -
سخت بھوک -

الدَّقَاعُ وَالْدَقَاعُ - الدَّقِيعُ
(مہم کی زیادتی کے ساتھ) مٹی -
الدَّقَاعُ - مٹی - بنجر زمین - کہا جاتا ہے
"رَأَيْتُ الْقَوْمَ صَقَعِي دَقْعِي"
یعنی زمین سے چھٹے ہوئے -
الدَّقْعَةُ - فقر - ذلت -
الْمَدَقُّعُ - مٹی سے لگا ہوا - ذلیل -

www.waseemziyai.com

بھاگنے والا۔ دُبلّا۔ جُوعُ
مُدْقِعُ۔ سخت بھوک۔
اِلْمُدْقَاعُ۔ کئی پر راضی ہونے
والا۔

دَقْلِهِ (ن) دَقْلًا۔ روک دینا۔ محروم
کرنا۔ ناک یا منہ پر مارنا۔ (س)
دُقُولًا غائب ہونا۔ فیہ
داخل ہونا۔

اَدَقْلُ۔ النخلُ۔ کھجور کا غراب ردی
پھل لانا۔ الرجلُ۔ آدمی
کا چھوٹے اور کمزور بچہ والا ہونا۔
السَّائِجُ۔ بکری کا دہلی و

کمزور ہونا۔ صفت (مُدْقِلُ)۔
الدَّقْلُ۔ ردی اور ادنیٰ قسم کی کھجور۔
بادبان کا ڈنڈا۔ کہا جاتا ہے۔

اَلَاكَ اَطْوَلُ مِنَ الدَّقْلِ وَاَنْتَ
تَنْشُرُ كَلَامَكَ تَنْشُرُ الدَّقْلُ۔
میں دیکھتا ہوں کہ تم بادبانی ڈنڈے
سے بھی زیادہ دراز ہو۔ اور گھنٹگو
بھی ردی و نارا کرہ کرتے ہو۔

الدَّقْلُ۔ جسم کی کمزوری۔
الدَّقْلَةُ وَالْدَقِيلَةُ وَالْدَقِيلَةُ۔
دہلی کمزور بکری۔ ج۔ دَقَالَ و
دَقَائِلُ۔

دَقَمَهُ (ن) دَقَمًا۔ سینہ پر مار کر
دھکا دینا۔ وَاَنْتَ تَوَطَّنَا۔
الریحُ علیہ۔ ہوا کا آنا۔

دَقَمَ (س) دَقَمًا۔ سہمنے کے دانوں
کا کرنا۔ صفت (دَقَمٌ وَاَدَقَمُ
اَدَقَمَ۔ فا۔ اگلے دانوں کو توڑنا۔
الدَّقَمُ۔ سخت غم۔

الدَّقْمَةُ۔ منہ کا اگلا حصہ۔
دَقْنُ (ن) دَقْنًا۔ مٹوڑی پر مگا مارنا۔
منع کرنا۔ محروم کرنا۔

دَقْنُ (ن) دَقْنًا۔ الحارِثُ۔ دیوار کو

گرا کر زمین کے برابر کرنا۔
الاسْحَاقُ۔ زمین کی اونچ نیچ
نکال کر اس کو ہموار کرنا۔
السترابُ۔ مٹی کو کوٹ کر برابر
کرنا۔ البُئْرُ۔ کنویں پر
مٹی وغیرہ ڈال کر پائ دینا۔
السترابُ علی المیتِ۔ میت
پر مٹی ڈالنا۔ ۵۔ دفع کرنا
دھکا دینا۔ الدَّابَّةُ۔ فی
السیرِ۔ جانور کو چلا کر تھکانا۔ کتنے
ہیں۔ دَكَّتِ الحَتَّى الرَّجُلُ۔ بخار
نے آدمی کو کمزور کر دیا۔

دَكَّ۔ بیمار ہونا۔
دَكَّتْ۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ۔ ایک چیز
کو دوسری چیز سے ملانا۔ مخلوط
کرنا۔

اِنْدَكَ۔ ہموار ہونا۔ الرَّمْلُ۔
ریت کا تہ بہتہ ہونا۔ السَّنَامُ
کولان کا پیٹھ کے برابر ہونا۔
تَدَاكَ۔ علیہ القومُ۔ لوگوں کا

بھیڑ کرنا۔ ہجوم کرنا۔
الدَّكُ۔ مص۔ ہموار زمین۔ ہموار جگہ
ج۔ دُكُوْكَ
الدَّكُ۔ ج۔ دَكَلَةٌ۔ (د) الدَّكَاؤُ

ج۔ دَكَاوَاتُ۔ نرم مٹی کا ٹیلہ۔
پست پہاڑ جس کی اوپر کی سطح
چوڑی ہو۔

الدَّكَّةُ۔ ازار بند۔ صحیح لفظ الدَّكَّةُ
ہے۔

الدَّكَّةُ۔ ہموار ریتلا میدان۔ بیٹھنے یا
کرسی رکھنے کے لیے ایک چبوترہ۔
ج۔ دَكَاكَ۔

الدَّكَاؤُ۔ دکان۔ چبوترہ۔ ج۔ دَكَاكِيْنُ
الدَّكَاؤُ۔ بہت کوٹنے پیسنے والا۔
بہت روندنے والا۔

الْاَدَاكُ۔ چوڑی پیٹھ والا اور پست قد
گھوڑا۔ کولان نہ رکھنے والا اونٹ
اس کا اسم الدَّكَاؤُ ہے۔ ج۔
دَكَّ وَدَكَاؤُ۔ مَوْنُ دَكَاؤُ
— یَوْمَ دَكَيْكَ۔ پورا دن۔
— شَهْرٌ اَوْ حَوْلُ دَكَيْكَ۔

پورا مہینہ یا سال۔
اِلْمَدَاكُ۔ مضبوط۔ قوی ہیکل آدمی۔
ہموار کرنے کا آلہ۔ اَمَدٌ
مَدَكَةٌ۔ وہ چھوڑی جو کام کرنے
میں بہت مضبوط ہو۔

دَكْدَكَ۔ الحفرة۔ گڑھے کو مٹی
سے بھرنا۔

تَدَكَّدَكَتْ۔ الجبالُ۔ پہاڑوں کا
گر کر ہموار ہو جانا۔

الدَّكْدَكُ وَالِدَكْدَكُ ج۔ دَكَاوِدُ
و (د) الدَّكْدَاكُ ج۔ دَكَاوِدُ
سخت زمین۔

دَكَسَ (ن) دَكَسًا۔ الشَّيْءُ۔ بھرنے۔
مٹی کا ڈھیر لگانا۔

دَكَسَ (س) دَكَسًا۔ الشَّيْءُ۔ کسی
شے کا تہ بہتہ ہونا۔ ڈھیر لگانا۔
اَدَكَسَ۔ المكانُ۔ کسی جگہ کا سبزی
اُگانا۔

الدَّكَيْسَةُ۔ مِنَ النَّاسِ۔ لوگوں کی
جماعت۔ گروہ۔

الدَّاِكْسُ۔ فا۔ چھینکے وغیرہ سے
شگون لینا۔ الدَّاِكْسُ رَمَنُ

الطَّبَّاءِ پیچھے سے آنے والا بہن
الدُّكَاؤُ۔ اوٹھ۔ الدُّكُوْسُ۔ شیر۔
چوپایوں اور بکریوں کا بڑا ریوڑ۔

دَكَلُ (ن) دَكَلًا۔ الطِّينُ۔
لپائی کے لیے ہاتھ سے گارا جمع کرنا
— الشَّيْءُ۔ روندنا۔

دَكَلُ۔ الدَّابَّةُ۔ جانور کو مٹی میں لوٹانا۔

تَدَّكَلَّ - مغرور ہونا۔ خود کو بڑا جاننا
 علیہ۔ ناز کرنا۔ متکبرانہ
 سلوک کرنا۔ عنہ۔ دیر لگانا۔
 الدُّكْلَةُ۔ پتلا گارا۔ خود کو بڑا جاننے
 والے لوگ۔
 الْأَدْكَلُّ۔ سیاہی مائل رنگ والا۔
 الدَّكِيلُ۔ روندنا ہوا۔
 دَكَمَ دَن دَكَمًا۔ الشَّيْءَ۔ بعض کو
 بعض پر کوٹنا۔ دُ فِي صَدْرِهِ۔
 سینہ پر مار کر ہٹانا۔ فَاءُ او
 أَنْفَهُ۔ منہ یا ناک توڑنا۔
 دَكَمَنَ۔ فِي الشَّيْءِ۔ داخل کرنا۔
 دُ فِي رَأْسِهِ۔ سر میں سینک
 مارنا۔
 تَدَّكَمَ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے
 کو ہٹانا۔ دھکیلنا۔
 الدُّكْمَةُ۔ سیاہی مائل رنگ۔
 دَكَنَ دَن دَكْنًا وَدَكَنَ۔ الْمَتَاعَ۔
 سامان کو ترتیب دینا۔ اور اوپر
 نیچے چننا۔ دَكَنَ الدُّكَّانَ
 دکان لگانا۔ جمانا۔
 دَكَنَ دَس دَكْنًا۔ سیاہی مائل ہونا
 صفت (آذِکُنْ، مَوْنَتُ دُکْنَاءُ
 ج۔ دُکْنُ۔ الثَّوبُ۔ کپڑے
 کا میلا میلا ہونا۔
 الدُّكْمَةُ۔ سیاہی مائل رنگ۔
 الدُّكَّانُ۔ دکان۔ بیٹھنے کی بیچ۔ چبوترہ
 ج۔ دُکَّا کَيْنُ۔ (کلمہ فارسی ہے)
 الدُّکائی۔ دکان والا۔
 دَلَّهَ دَن دَلَّهَةً وَدُلُّوْلَةً۔ و
 دَرِیْلُ۔ الی الشَّيْءِ وَعَلِیْهِ۔
 راہ نمائی کرنا۔ راستہ دکھانا۔
 د۔ دَلَّ وَدَلَّالًا وَدَلَّ۔ دَس،
 دَلَّالًا۔ ناز و خیز کرنا۔ الْمَرْأَةُ
 عَلٰی زَوْجِهَا۔ عورت کا اپنے شوہر

پر بناوٹی جرات دکھانا اور جھوٹی
 مخالفت کرنا۔ الرَّجُلُ۔
 فخر و غرور کرنا۔ اپنی بخشش پر
 احسان جتانا۔
 آدَلَّ إِدْلَالًا۔ علیہ۔ کسی کی محبت
 پر بہت اعتبار کر لینا۔ اور اسی سے
 ہے یہ قول "آدَلَّ فَا مَلَّ"
 جرات کرنا۔ عَلٰی أَقْرَانِهِ
 اپنے ساتھیوں کو اوپر سے دبا
 لینا۔ الْبَازِیُّ عَلٰی
 صید۔ باز کا اپنے شکار پر
 جھپٹا مارنا۔ کتے ہیں "هُوَ
 یُدِلُّ بِهِ" وہ اس پر بھروسہ
 کرتا ہے۔
 آدَلَّ۔ بِالطَّرِیقِ۔ راستہ پہچاننا
 تَدَّكَلَّ۔ علیہ۔ گستاخی و جرات
 کرنا۔ الْمَرْأَةُ عَلٰی زَوْجِهَا۔
 ناز و خیز کرنا۔
 اِنْدَلَّ۔ راستہ پانا۔ الْمَاءُ۔
 پانی کا گرنا۔
 اِسْتَدَلَّ۔ علیہ۔ نشان دریافت
 کرنا۔ پتہ دریافت کرنا۔
 اِسْتَدَلَّ بِکَذَا عَلٰی الْأَمْرِ۔
 کسی امر پر دلیل کرنا۔ یا نتیجہ نکالنا۔
 الدَّالَّةُ۔ مَوْنَتُ۔ دَالٌ۔ ناز و خیز
 جرات۔ کہا جاتا ہے "لَهُ عَلِیْهِ
 دَالَّةٌ" اس کو اس پر ناز ہے۔
 الدَّلُّ۔ مَص۔ اچھی خصلت۔ حالت
 سکون و اطمینان۔
 الدَّلَالُ۔ ناز و خیز۔ وقار۔
 الدَّالُّوْلَةُ۔ ناز کرنا۔
 الدَّلَالَةُ۔ دلال کی مزدوری یا پیشہ
 راہبری کی اجرت۔
 الدَّلَالُ۔ نیلام کرنے والا آدمی۔ دلالی
 کرنے والا۔

الدَّلِيلُ۔ ج۔ اِدْلَةٌ وَادْلَاءُ وَ
 (الدَّلَالَةُ)۔ ج۔ دَلَّالٌ۔
 جس سے رُشد و ہدایت ملے۔
 دلیل و حجت۔ الدَّلِيلُ۔
 رہنما۔ مُرْشِد۔
 الدَّلَّةُ۔ احسان۔ ناز و خیز۔
 الْأَدَلُّ۔ احسان جتنے والا۔
 الدُّنَى وَالدَّلِيلَةُ۔ کھلی سڑک۔
 واضح راستہ۔
 الْمُدِلُّ۔ اپنے اوپر اور اپنے سامان
 پر بھروسہ رکھنے والا۔
 الْمُدِلُّ بِالشَّجَاعَةِ۔ دلیر۔
 جری۔
 الدُّلْبُ۔ درخت چنار۔ واحد
 (دُلْبَةٌ)
 الدُّلْبَةُ۔ سیاہی۔
 الدَّالِبُ۔ دہکتی ہوئی چنگاری۔
 الدُّوْلَابُ وَالدُّوْلَابُ۔ رہٹ۔
 محور پر گھومنے والی چیز۔ ج۔
 دَوَّالِبُ۔ ایہ کلمہ دخیل ہے
 الْمَدَّکِبَةُ۔ بہت چنار کے درختوں
 والی زمین۔
 الدَّلْبُوشُ۔ ایک قسم کی گھاس کا نام۔
 دَلَّتْ (ض)۔ دَلَّیْتُ۔ چھوٹے چھوٹے
 قدموں سے چلنا۔
 تَدَلَّتْ۔ الیہ۔ کود پڑنا۔ گھس پڑنا۔
 اِنْدَلَّتْ۔ الرَّجُلُ۔ خود سر ہونا۔
 اِدَلَّتْ۔ الشَّيْءُ۔ ڈھالنا۔
 الدَّلَاشُ۔ تیز رو۔ کتے ہیں "رَجُلٌ
 دَلَّاشٌ وَنَاقَةٌ دَلَّاشٌ"۔ ج
 دَلَّتْ وَدَلَّتْ۔
 دَلَّجَ دَن دُلُّوجًا۔ کنویں سے پانی
 لے کر حوض میں ڈالنا۔ صفت۔
 (دَالِجٌ)۔ ج۔ دَلَّجٌ۔
 آدَلَّجَ إِدْلَاجًا وَادَلَّجَ إِدْلَاجًا۔

— القومہ تمام رات یا آخری
حصہ میں سفر کرنا۔ اسم (الدُّجَّةُ
والدُّجَّةُ)
الدُّجُّجُ والدُّجَّانُ والدُّجَّةُ آخری
رات کی گھڑی۔
الدُّجُّجُ۔ سرنگ (۔) والمَدُّجَّةُ
وحشی جانوروں کا بھٹ۔
المَدُّجَّةُ۔ دودھ لے جانے کے لیے
کھڑی یا چمڑے کا بڑا برتن۔ ڈول۔
المَدُّجَّةُ۔ آخری رات میں چلنے کا عادی۔
دَلَجَ دَف، دُلُوْحًا۔ بوجھ کے سبب
آہستہ رفتاری سے چلنا۔ سستی
سے چلنا۔
تَدَلَّجَ۔ الرَّجُلَانِ الشَّيْءَ۔ دو شخصوں
کا کھڑی پر بوجھ اٹھانا۔
الدَّالِجُ۔ ج۔ دُلَجَ وِدَوَالِجُ وِ
(الدَّلُوحُ) ج۔ دُلُجُ۔ پانی سے
بہت بھرا ہوا بادل۔ قوس دُلُجُ۔
سوار کو نہ سنانے والا گھوڑا۔ بہت
پسینہ والا گھوڑا۔
دَلِجَ دَس، دَلَخًا۔ موٹا ہونا۔
— اِلَانَا۔ برتن کا بھر کر
بہ پڑنا۔
الدَّالِجُ۔ موٹا۔ فربہ۔ کہتے ہیں "بعید"
دَالِجٌ وَاِبِلٌ دُلُجٌ وِدَوَالِجُ۔
الدَّلُوحُ۔ موٹا۔ ج۔ دُلُجُ۔
دَلْدَلٌ دَلْدَلَةٌ۔ اَعْضَائُهُ
اور اَسَلَةٌ۔ چلنے میں اعضائے بدن
یا سر کو ہلانا۔
تَدَلَّدَلٌ۔ فی مَشْيِهِ۔ بنا۔ لڑکھڑانا۔
— الشَّيْءُ۔ ہلنا۔ ٹپکتے ہوئے
حرکت کرنا۔
الدُّدُلُ والدُّدُلُ۔ سیسی۔
الدُّدُلُ۔ بڑا کام۔
الدُّدَالُ۔ اضطراب۔ قوم "دَلْدَالُ"

نغزش بگام چلنے والی قوم۔
دَلَسَ۔ البَالِغُ بائع کا مشتری سے
فروخت کی جانے والی چیز کا عیب
چھپالینا۔ المَحْدِثُ۔ محدث
کا اپنے شیخ کا نام نہ لینا۔ بلکہ
اوپر کے راوی کا نام ایسے نہج
سے لینا کہ گویا اس کو اس سے سماع
حاصل ہے۔
دَالَسَهُ مَدَّالَسَةً۔ دھوکا دینا ظلم کرنا
کہتے ہیں "هُوَ لَا يَدَّالِسُ وِ
لَا يُوَالِسُ" وہ نہ ظلم کرتا ہے
نہ خیانت۔
أَدَلَسَ۔ المَكَانُ۔ موسم گرما کے
آخر میں یا چر لینے کے بعد کسی جگہ
کا سرسبز ہونا۔
تَدَلَّسَ۔ الرَّجُلُ۔ چھپنا۔
الطَّعَامُ۔ تھوڑا تھوڑا کھانا۔
— الدَّابَّةُ۔ جہانور کا
چراگاہ میں تھوڑی سی گھاس کو پورا
چر جانا۔
إِنْدَلَسَ۔ الشَّيْءُ۔ پوشیدہ ہونا۔
الدَّلَسُ۔ دھوکا۔ فربہ۔ الدَّلَسُ
والدُّلَسَةُ۔ اندھیرا۔
الدَّلَسُ۔ وہ پودا یا سبزہ جو موسم گرما
کے آخر میں یا چر لینے کے بعد ہرا
ہو جائے۔ ج۔ آدَلَسُ۔
دَلَصَ دَن، دَلِصًا۔ چمکنا۔ نرم
ہونا۔ صفت (دَلِصٌ)۔ ج۔
دَلَاصٌ وِدَلِصٌ) ج۔ دُلُصٌ۔
دَلِصٌ دَس، دَلَاصَةً۔ سامنے
ہونا۔ صفت (أَدَلَصُ، مُوَنَثُ
دَلْصَاءُ۔ نَابٌ دَلْصَاءُ
بڑھاپے کی وجہ سے دانت گر جانا۔
دَلَصَ۔ الشَّيْءُ۔ نرم کرنا۔ صاف
اور چمک دار بنانا۔ کہتے ہیں۔

دَلَصَ السَّيْلُ الْحَجَرَ۔ سیلاب
نے پتھر کو چمک دار بنا دیا۔
الدَّرَسُ۔ زرہ کو نرم و ملائم کرنا
— الْجَبِينُ۔ پیشانی کے
بال نوچنا۔
إِنْدَلَصَ۔ الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ۔ ہاتھ
سے چھوٹ کر گر جانا۔ الشَّيْءُ
مِنْ الشَّيْءِ۔ نکلنا۔
الدَّلِصُ والدَّلِصَةُ۔ ہموار زمین۔
الدَّلَاصُ۔ نرم۔ چمک دار۔ کہتے ہیں۔
جِدْعٌ دَلَاصٌ۔ نرم۔ چمکدار زرہ
الدَّلَاصُ۔ نرم کرنا۔ چمکنا۔
دَلَّظَهُ دَض، دَلَّظًا۔ سینہ پر
مار کر دھکیلنا۔ بٹانا۔ "دَلَّظَ
فِي سِيرِهِ" جلدی چلنا۔
دَالَّظَةُ۔ مدافعت کرنا۔
إِنْدَلَّظَ۔ الْمَاءُ۔ پانی جاری ہونے
لگا۔
دَلَعَ دَف، دَلْعًا وِدَلَعٌ۔ لِسَانَهُ۔
زبان نکالنا۔
دَلَعَ دَفَن، دَلْعًا وِدُوعًا۔ وِ
إِنْدَلَعَ وَاِدْلَعٌ۔ لِسَانُهُ۔
زبان کا منہ سے باہر نکلنا۔
إِنْدَلَعَ الْبَطْنُ۔ پیٹ کا بڑھ کر
ڈھیل ہونا۔ السَّيْفُ۔ تلوار
کا میان سے نکلنا۔
الدَّلِيعُ والدَّلُوعُ۔ کشادہ اور فراخ
راستہ۔ نرم راستہ۔ ج۔
دَلَايِعُ۔ والدَّلُوعُ مِنْ
النُّوقِ۔ رفتاریں اونٹوں سے
آگے نکل جانے والی اونٹنی۔
الدَّلَايِعُ والدَّلُوعَةُ۔ گونگا۔
المُدْلَعُ۔ ناز و نعمت میں پلا ہوا۔ اسم
(الدَّلَاعَةُ) یہ مولدین کا کلام ہے۔
دَلْعَسَ والدَّلْعَسُ والدَّلْعَسُ۔

والدِ لَعُوسٍ وَاَلِی لُعَاسٍ و
الدَّلَاعِیْسُ - مِنَ الْجَمَالِ
سندھا ہوا اونٹ۔

الِدِ لُعَانٍ - لیس مار چکنے والی مٹی۔
(لغت عامیہ)

دَلَعْتُ (مَنْ) دَلَعًا وَدَلَعًا وَدُلُوقًا وَ
دَلِیْقًا وَدَلَفَانًا - بیڑی پڑے
ہونے کی طرح چھوٹے چھوٹے
قدموں سے چلنا - الناقۃُ
بِحَصْلِهَا - اونٹنی کا بوجھ لے کر
اٹھنا - الْجَبِیْشُ - لشکر کا
آگے بڑھنا - صفت (دَالِیْقٌ)
جہ - دَلَعْتُ وَدُلَعْتُ -

أَدَلَعْتُ - لہذا القول - سختی سے کلام
کرنا - اَلِیْکَبُورُ - آہستہ چلانا
تَدَلَعْتُ - رَکِیْنُہ - چل کر نزدیک ہونا۔
إِنْدَلَعْتُ - علیہ - گرنا۔
أَبْدَلَفْتُ - نشانہ کے قریب گر کر اچھٹ
جانے والا تیر۔

أَبْدَلَفْتُ - بہادر -
الدَّلُوفُ - تیز اڑان کا گدھ - فسرہ
اونٹ - بہت پھل دار کھجور کا درخت
جہ - دَلَعْتُ -

الدُّلُفِیْنُ - ایک قسم کی بڑی مچھلی - جہ
دَلَفِیْنُ - اس کے ہم معنی عربی
میں اَلْدُّخَسُ ہے۔

دَلَقْتُ (ن) دَلَقًا وَادَلَقْتُ - السیفُ
مِنْ غَمْدِهِ - تلوار کو میان سے
نکالنا - دَلَقْتُ الْبَابَ - دروازہ
کو زور سے کھولنا - علیہم
الْعَاسِقَةُ - لوٹ ڈالنا -
الْبَعِیْرُ یَشْفِقُ شَقَّتَهُ - اونٹ کا اپنے
منہ سے بیلے نکالنا - جھاک نکالنا
د - دَلَقًا وَدُلُوقًا، السیفُ
تلوار کا خود بخود نکل پڑنا -

الْخِیْلُ - گھوڑوں کا آگے پیچھے
نکلنا - صفت - (دُلُقٌ) - واحد -
(دَالِقٌ وَدُلُوقٌ)

إِنْدَلَقْتُ - الشیءُ - کسی چیز کا اپنی جگہ
سے نکلنا - السیلُ علیہ -
سیلاب کا کسی پر امنڈ آنا -
السیفُ - تلوار کا خود بخود نکل
پڑنا - الْخِیْلُ - گھوڑوں
کا بہت تیزی سے نکل جانا۔

تَدَلَقْتُ - السیلُ علیہ - سیلاب کا
ایک دم بہ پڑنا۔

إِسْتَدَلَقْتُ - السیفُ - تلوار کا
میان سے نکالنا۔

الدَّلَقُ - جسم میں بلی کے قریب قریب
زور رنگ کا ایک جانور جس کا
پیشہ اور گردن نائل بہ سپیدی
نہوتے ہیں - سیفٌ دَلِیْقٌ وَ
دَالِیْقٌ وَدُلُوقٌ - میان سے
آسانی سے نکلنے والی تلوار -
غَاذَقَةُ دُلُوقٌ - سخت لوٹ -
تَاقَةُ دُلُوقٌ - بڑھاپے کے
سبب دانت ٹوٹی اونٹنی - جہ
دُلُقٌ -

دَلَقْتُ (ن) دَلَقًا - الشیءُ - رگڑنا
ملنا - کھڑچنا - اَلْدَّهْرُ -

زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنانا -
وَجْهَةٌ بِالطَّیْبِ چہرہ پر خوشبو
لگانا - الرَّجُلُ حَقَقَهُ - حق
ظلم چھیننا - عَزِیْمَةٌ - قرض
خواہ کوٹالنا - (دُلُوکًا، الشَّمْسُ
سورج کا غروب ہونے کے لیے
جھکنا - صفت - (دَالِیْقٌ)
دَالِقٌ مَدَّ اَلْکَہْ - الغَیْمُ - قرض خواہ
کوٹالنا۔

تَدَلَقْتُ - نہاتے وقت بدن ملنا۔

- بِالطَّیْبِ - خوشبو لگانا۔
الدَّلَقُ - ڈھیلا پن - کہتے ہیں: "فِی
رُکْبَتِهِ دَلَقٌ" اس کے زانو
میں ڈھیلا پن ہے - غروب آفتاب
کا وقت۔

الدَّلُوکُ - لگانے کی خوشبو یا ملنے کی
دوا وغیرہ۔

الدَّلِیْقُ - تجربہ کار - چشیدہ روزگار -
جہ - دُلُقٌ - وہ خاک جس کو ہوا
اڑاتی پھرے - ایک پودا۔

الدُّوْلُوکُ - بڑا معاملہ - جہ - دَالِیْقٌ
إِلْمَدَلَقْتُ وَإِلْمَدَلَقْتُ - ملنے کا آلہ -

الْمَدَلُوکُ - مفع - البعیرُ الْمَدَلُوکُ
مکڑور گھٹنوں والا اونٹ - وہ شخص جو

سفر سے تجربہ کار ہو گیا ہو -
الْمَدَلِیْقُ - وہ شخص جو خود کو چھوری

باتوں سے بلند نہ رکھ سکتا ہو -
دَلِیْمٌ دَسٌ دَلَمًا وَادَلَمًا إِدْلِیْمًا مَا

چمک دار سخت سیاہ ہونا - صفت -
دَلِیْمٌ مُؤَنَتٌ - دَلَمَاءُ -

دَلِمَتِ الشَّفْعَةُ - ہونٹ کا ڈھیلا
ہو کر ٹک جانا - إِذْلَامٌ الدِّلِیْلُ -

رات کا بہت تاریک ہونا -
أَدَلَمَ - شَفَّتَهُ - ہونٹ کو ڈھیلا کرنا

الدُّکَمُ - ناخ -
الدَّلَامُ - سیاہی سیاہ - کہتے

ہیں: "شیءٌ دَلَامٌ" کالی چیز
الدَّمَاءُ - قمری مہینہ کی تیسویں

رات -
الْأَدَلَمُ - مِنَ الْاَلْوَانِ - کالا۔

الْأَدْعَمُ - سانپ - لمبا کالا -
الدَّیْلَمُ - کردوں میں ایک قوم کا نام

مصیبت - حوض کے نزدیک
چیونٹیوں اور چھڑیوں کے جمع

ہونے کی جگہ - لشکر - ترتیر -

بھٹ تیر۔
الدُّلُوسُ وَالْدُّلَامُوسُ۔ سخت اندھیرا
مصیبت۔

الدُّلُوسُ۔ مصیبت۔
تَدَلَمَصُ۔ راسُہ۔ سرکا چاندلا
ہونا۔

الدُّلُوسُ وَالْدُّلَامُوسُ۔ چمک دار
رأسُ دُلُوسُ۔ چاندلا سر۔
دَلِہ دس، دَلِہَا وَدَلِہَا وَدَلِہَا۔
وَتَدَلِہ عَشَقُ یَا عَم کی وجہ سے
مسلوب العقل ہونا۔ حیران ہونا۔

دَلِہ۔ (ف) دَلِہَا۔ عنہ۔ تسلی پانا۔
دَلِہَا۔ حیران کرنا۔ مدہوش کرنا۔
الدَّالِیۃُ وَالْدَّالِیۃُ عَشَقُ وغیرہ
کے باعث کمزور دل۔ سرگشتہ و
دیوانہ۔ کہتے ہیں۔ ”ذہب
دَمُہ دَلِہَا“ اس کا خون
رائگان گیا۔

الدَّالِیۃُ۔ حیران۔ کھوئی ہوئی عقل یا
دل والا عاشق یا غمزدہ۔

دَلِہَت۔ الرجل۔ جلد آگے بڑھنا۔
الدَّالِہَتُ وَالْدَّالِہَتُ وَالِدِہَا تُ
دیر۔ آگے بڑھنے والا۔ بشیر۔

لَا دَلِہَم۔ اللیل۔ رات کا سخت
تاریک ہونا۔ الظَّلَامُ۔ اندھیرا
گھپ ہونا۔ الرجل
بوڑھا ہونا۔

الدَّالِہَم۔ تاریک۔ بھڑیا۔ زبھٹ
تیر۔ عشق سے کھوئی ہوئی عقل
والا۔

الدَّالِہَامُ وَالْدَّالِہَمَسُ۔ دیر۔
بہادر۔ شیر۔ الدَّالِہَمَسُ
بہت تاریک رات۔

دَلَا دَن، دَلَاوَا دَلِی۔ الدَّلَاو۔
ڈول کو کنویں میں ڈالنا۔ نکالنے

کے لیے کھینچنا۔ حاجَتہ
حاجت طلب کرنا۔

دَلَا۔ نرمی اور مدارات کا سلوک
کرنا۔ کہتے ہیں۔ ”دَلَاوْتُ بِفُلَانٍ
إِلَیْکَ“ میں نے فلاں کو سفارشی
بنایا۔ ”وَدَلَاکَ بَعْرُوسِ“ اور
اس نے اس کو دھوکہ میں ڈالا۔
دَلَاوْتُ بِالْدَّلَاوِ۔ میں نے ڈول
سے پانی کھینچا۔ دَلَاکَ بِالْحَبْلِ
مِنَ السُّطْحِ۔ اس نے اس کو
رسی کے ذریعہ چھٹ پر سے
لٹکایا۔

دَلَا۔ کسی کے ساتھ رفیق و نرمی کا
سلوک کرنا۔ مدارات سے پیش آنا۔
أَدَلِی۔ آدَلَا۔ ڈول کو کنویں میں
لٹکانا۔ فیہ۔ کسی کی بدگوئی
کرنا۔ غیبت کرنا۔ بِقَرَابَتِہ
رشتہ داری کا وسیلہ پکڑنا۔
بِحَاجَتِہ۔ دلیل پیش کر کے
اس سے حجت لانا۔ الیہ

بہال۔ دینا۔ اَدَلِی اِلَی
فُلَانٍ کسی کے پاس اپنا
جھگڑا لے جانا۔

تَدَلِی۔ الثَّمَرُ مِنَ الشَّجَرِ۔ درخت
میں پھل لٹکانا۔ من الخیل۔
گھوڑے سے اترنا۔

إِدْلُوْی۔ اِدْلُوْیَلَا۔ جلدی کرنا۔
الدَّلَاوُ۔ مص۔ ڈول۔ مؤنث ہے کبھی
مذکر بھی مستعمل ہوتا ہے۔ ج۔ دَلَاوُ
وَأَدْلُ وَدَلِی وَدَلِی وَدَلِی۔

کہتے ہیں ”أَلِی دَلَاوُکَ فِی الدَّلَاوِ“
یعنی اوروں کی طرح تم بھی اپنی
کوشش کر کے دیکھ لو۔ ایک

برج آسمانی کا نام۔ اَوْنَطُ کا دارغ
مصیبت۔

الدَّلَاۃُ۔ چھوٹا ڈول۔ ڈولچی۔ ج۔
دَلِی وَدَلَاوَاتُ۔

الدَّالِی۔ فَا۔ سیاہ انگور
الدَّالِیۃُ۔ رہٹ۔ زمین جس کو ڈول یا
رہٹ سے سینچا جاتا ہو۔ انگور کی
بیل۔ ج۔ دَلَاوِ۔ (یہ مولد ہے)
دَلِی دَس، دَلِی۔ حیران ہونا۔

تَدَلِی۔ بدہ۔ قریب ہونا۔ لہ،
کسی کے سامنے تواضع کرنا۔ فروتنی
کرنا۔ خاکساری کرنا۔

دَمَدَن، دَمَا۔ الشَّیءُ بِالصَّبِغِ أَوْ
الْقَبْرِ وَغَوَّہِمَا۔ رنگ یا
تار کو لقمہ پڑنا۔ مَنَا۔ الارض
زمین کو برابر کرنا۔ التَّیْرُ بَوَعُ
حُجْرَہ۔ جنگلی چوہے کا اپنے
سوراخ کو مٹی وغیرہ سے برابر کرنا۔
بندر کرنا۔ الرجل۔ کسی کو
پہری طرح عذاب دینا۔ مارنا یا سر
کچلنا۔ القوم۔ نیزہ مار کر
تباہ کر دینا۔ الرجل۔ تیز
چلنا۔

دَمَدَن (ن من س) دَمَامَۃٌ۔ حقیر و
بدبخت ہونا۔ صفت۔ (دَمِیْمُ)
ج۔ دَمَامَۃٌ۔ مؤنث۔ دَمِیْمُ
وَدَمِیْمَۃٌ۔ ج۔ دَمَامَۃٌ وَدَمَامُ۔

دَمَمَ۔ الشَّیءُ۔ لقمہ پڑنا۔
أَدَمَ۔ الرجل۔ بدزبانی کرنا۔ بدشکل
بیٹا پیدا ہونا۔

الدَّمُ وَالِدَمَمُ وَالِدِمَامُ۔ ہر ایک
چیز جو طلاء کے کام میں آئے۔

الدَّمُ۔ دمر خون میں ایک لغت
الدَّمَمَۃُ۔ چوٹی۔ جون۔ میٹھی۔ بکریوں
کا باڑا۔ بلی۔ پست قد۔ حقیر

الدَّمَمَۃُ۔ طریقہ گریا۔ ج۔ دَمَمَۃُ۔
الدِّیْمُومُ وَالِدِیْمُومَۃُ۔ وسیع

بیابان۔ ج۔ دَیَا مِیْنُہ۔
 الدَّیْمُومَةُ: بمعنی ہمیشگی
 اِلْمَدَامَةُ: ایک قسم کی دندانہ دار لکڑی
 جس سے کاشتکار زمین کو ہموار
 کرتے ہیں۔
 المَدْمُومَةُ: خون کی طرح سرخ۔ بہت
 موٹا۔ چربی دار۔
 دَمَثُ دُک: دَمَاثُک: نرم خوش ہونا۔
 دَمِثُ (س) دَمَثَا: المکان وغیرہ۔
 کسی جگہ یا چیز وغیرہ کا نرم اور
 ہموار ہونا۔
 دَمَثُ: المَضْرَجُ: نرم کرنا۔
 المکان: نرم کرنا۔ کہ
 الْحَدِیْثُ: بیان کرنا۔ ذکر کرنا۔
 الدَّمِثُ والدَمَثُ والدَمِثُ و
 الدَمِیْثُ: نرم ریتلی جگہ۔ ج
 دِمَاثُ وَاَدَمَاثُ: اور اسی
 سے ہے "رجلٌ دَمِثُ الْاَخْلَاقِ"
 نرم خو۔ خوش اخلاق آدمی۔
 الدَمَاثُ: نرم چیزیں۔ واحد (دَمِیْثَةٌ)
 دَمَجَ (ن) دَمُوجَا وَاِنْدَمَجَ وَاَدَمَجَ:
 فی الشَّیْءِ: کسی چیز کا کسی شے میں
 مضبوطی سے گڑ جانا۔ دَمَجَ
 الامرُ: کام ٹھیک و درست ہونا۔
 دَمَجَہ: فی الشَّیْءِ: داخل کرنا۔ کاڑنا۔
 دَاَجَہ دَمَاجَا: علیہ حد۔ مخالفت
 پر اتفاق کرنا۔
 اَدَجَہ: الشَّیْءِ فی الثَّوْبِ: کسی چیز کو
 کپڑے میں لپیٹنا۔ الحَبْلُ:
 رسی کو خوب اچھی طرح بٹنا۔
 الکَلَامُ: کلام کو حسن ترتیب
 سے آراستہ کرنا۔ الفَرَسُ:
 گھوڑے کو ڈبلا کرنا۔
 تَدَامَجَ: القَوْمُ علیہ: ایک دوسرے
 کی مدد کرنا۔ اکٹھا ہونا۔

تَدَمَجَ: فی ثِیَابِہ: اپنے کپڑوں میں
 لپیٹنا۔
 الدَامِجُ: فا۔ تاریک۔ کہتے ہیں: لیلٌ
 دَامِجٌ: تاریک رات۔
 الدُمِجُ: دوست۔ نظیر۔
 الدَّجَجَةُ: طریقہ۔ کہتے ہیں: عَلٰی
 تِلْکَ الدَّجَجَةِ: اسی طریقہ پر۔
 الدُّمَاجُ والدِمَاجُ: بہت مضبوط۔
 سیدھا۔
 المَدْمَجُ: مفع۔ تیر کی چھڑ۔
 المَدْمَاجَةُ: پگڑی۔
 دَمَجَ (ف) دَمَخَا: بلند ہونا۔
 دَامَسَہ: سر بھڑانا۔
 دَمَدَمَ: دَمَدَمَةٌ: علیہ غصہ
 سے کلام کرنا۔ اللہ
 علیہ ص۔ اللہ تعالیٰ نے ان
 کو ہلاک کر ڈالا۔ الشَّیْءُ:
 کسی شے کو زمین سے چپکانا۔
 الدِمْدِمُ: خشک کھاس۔
 الدَّمَادِمُ: نرم ٹیلے۔
 دَمَرَن دَمُورَا وُدَمَارَا وُدَمَارَةً:
 ہلاک ہونا۔ (دَمُورَا)
 علیہ ص۔ بغیر اجازت کے داخل
 ہونا یا برے ارادہ سے اچانک آنا۔
 دَامَرَ: اللیل۔ رات بھر جاگنا۔
 دَمَرُهُم دَمَرَ علیہ ص۔ ہلاک کرنا۔
 تَدَمَّرَ: دمشق سے کچھ فاصلہ پر ایک
 بڑا شہر تھا۔ ایک قلعہ کا نام۔
 التَّدْمَرِیُّ: لثیم۔ موٹا جنگلی چوہا۔
 سخت گوشت۔ کہتے ہیں: مَا
 فِی الدَّارِ تَدْمَرِیٌّ: گھر میں کوئی
 نہیں ہے۔
 دَمَسَ (ن) ض: دَمَسَا وُدَمُوسَا:
 الظَّلَامُ او اللیل۔ سخت تاریک
 ہونا۔ صفت (دَامَسَ)۔

المَوْضِعُ: کسی مقام کا مٹ جانا۔
 دَمَسَہ (ن) دَمَسَا وُدَمَسَہ:
 ڈھانپنا۔ چھپانا۔ دفن کرنا۔
 دَمَسَ علیہ السِّرَاوَالِ الْخَبَرُ:
 کسی سے بھید یا خبر کو پوشیدہ
 رکھنا۔ بینہ ص۔ اصلاح کرنا۔
 دَمَسَتُ (س) دَمَسَا: یَدَاہ: ہاتھ
 کا گندگی میں بھر جانا۔
 دَامَسَ مَدَامَسَہ: الشَّیْءُ: چھپانا۔
 پوشیدہ کرنا۔
 اَدَمَسَ: اللیل۔ رات کا تاریک ہونا۔
 الشَّیْءُ: چھپانا۔
 تَدَمَسَ: تَهَوَّنَا: آلودہ ہونا۔
 اِنْدَمَسَ: تہ خانہ میں داخل ہونا۔
 الدَّمَسُ: مص۔ دور سے دکھائی
 دینے والی شبیہ و صورت۔ رَأِیْتُ
 دَمَسًا: میں نے ایک صورت
 دیکھی۔
 الدُّمَسُ: مِنَ الْاُمُورِ: بڑے کام
 کہتے ہیں: جَاءَنَا بَا مُورٍ دُمِسُ:
 وہ بڑے کام لے کر ہمارے پاس
 آیا۔
 الدَّمَسُ والدَمِیْسُ: پوشیدہ۔
 الدِمَاسُ: ہر چھپانے والی چیز۔ جو
 چادر مشکیزہ پر ڈالی جائے۔
 الدَّمُوسُ: شکاری کے چھپنے کی جگہ۔
 ج۔ دَوَامِیْسُ:
 الدِّیْمَاسُ والدِیْمَاسُ: تہ خانہ۔
 حمام۔ قبر۔ ج۔ دِیَا مِیْسُ: و
 دَمَامِیْسُ: لیل اَدَمُوسُ:
 تاریک رات۔
 الدِیَا مِیْسُ: تاریک تہ خانے۔ اور
 اسی سے دِیَا مِیْسُ رُوْمِیَّةُ
 ہیں۔
 الدُّمُسْتَقُ: یونانی سلطنت میں فوج کا

جریل۔ ج۔ دَمَاسِقُ۔
 دَمَشَقُ۔ الامور۔ کسی کام کو عجلت
 میں ختم کرنا۔ الشیء۔ زینت
 و آرائش دینا۔
 تَدَمَشَقُ۔ دمشق میں آنا۔
 دَمَشَقُ۔ الیکدین۔ تیز دست
 پھرتیلا۔
 دَمَشَقُ دَمَشَقُ۔ شام کا دار الخلافہ
 نسبت کی صورت میں دَمَشَقُ
 بولتے ہیں۔ ج۔ دَمَاشِقَةُ۔
 دَمَصُّ (ن) دَمَصًا۔ فی الشیء۔ جلدی
 کرنا۔ دَمَصَتِ الْکَلْبَةُ بِجَوْدِهَا
 کتیا کا وقت سے پہلے بچہ جن دینا۔
 دَمِصُّ (س) دَمَصًا۔ سر پر بالوں کا
 کم ہونا۔ ابرو کا سروں پر باریک
 اور درمیان سے موٹا ہونا۔ صفت
 (اَدَمَصُ) مَوْنُ۔ دَمَصًا
 ج۔ دَمِصُّ۔
 دَمَعَتُ (ن) دَمَعًا و دَمَعَتُ (س)
 دَمَعًا و دَمَعَانًا و دَمُوعًا۔
 العین۔ آنکھ کا آنسو
 بہانا۔ دَمَعٌ اِلَیْنَا۔ برتن
 کا بھر جانا۔
 اَدَمَعٌ۔ اِلَیْنَا۔ برتن کو کناروں
 تک بھر دینا۔
 اِسْتَدَمَعٌ۔ آنسو بہانا۔
 الدَّمْعُ۔ آنسو۔ ایک قطرہ دَمْعَةٍ
 ج۔ دَمُوعٌ و اَدَمَعٌ۔ دَمْعَةٌ
 الکرم۔ شراب۔ اِمْرَأَتُ
 دَمِیْعَةٍ و دَمِیْعٍ۔ جلد رو پڑنے
 والی اور بہت آنسوؤں والی
 عورت۔ ج۔ دَمْعُی و دَمَائِعُ
 و رَجُلٌ دَمِیْعٌ۔ جلدی رو پڑنے
 والا اور بہت آنسوؤں والا مرد۔
 ج۔ دَمَعًا و دَمْعُی۔

الدَّمَاعُ۔ فَا۔ مکان دَامِعٌ۔
 مناک ترجمہ۔ شَجَعَةٌ
 دَامِعَةٌ۔ خون بہانے والا زخم۔
 الدَّمَاعُ۔ درخت کے کاٹنے پر اس سے
 بننے والا رس یا مد۔ بیماری یا
 بڑھاپے کے سبب آنکھ سے بننے
 والا پانی۔
 الدَّمَاعُ و الدَّمُوعُ۔ بہت آنسو
 والا۔ مناک جس سے تری ظاہر ہو
 یَوْمٌ دَمَاعٌ۔ پھوار والا دن
 قَدَحٌ دَمَعَانٌ۔ لبالب بھرا
 ہوا پیالہ جس سے چیز ٹپکنے لگے۔
 المَدَمَعُ۔ آنسو بہنے کی جگہ۔ ج۔ مَدَامِعُ
 دَمَعَةٍ (ن) دَمَعًا۔ دماغ تک
 زخمی کرنا۔ صفت مفعول دَمِیْعٌ
 و مَدَمُوعٌ۔ ع الشمس
 سورج کا دماغ کو تکلیف پہنچانا۔
 ع۔ غالب آنا۔ الحق
 الباطل۔ حق کا باطل کو مٹانا۔
 بے حقیقت کرنا۔
 دَمَعٌ۔ الاطعمۃ بالدمعہ۔ کھانے
 میں چربی ڈالنا۔
 اَدَمَعَه۔ الی کذا۔ کسی کا حاجتمند
 بنانا۔
 اَدَمَعٌ۔ الطعام۔ کھانا نکلنا۔
 الشیء۔ داخل کرنا۔
 شَجَعَةٌ دَامِعَةٌ۔ زخم جو دماغ تک
 پہنچ جائے۔
 الدَّمَاعُ۔ سر کا بھیجا۔ ج۔ اَدَمَعَةٌ
 اُمُّ الدَّمَاعِ۔ دماغ پر لپٹی
 ہوئی باریک جھلی۔
 دَمَقُ (ن) دَمُوقٌ۔ علیہ۔ بغیر
 اجازت داخل ہونا۔
 دَمَقُ (ن) دَمَقًا۔ الشیء۔ چُرانا
 ع۔ فَاہُ۔ دانت توڑنا۔

و دَمَقَ وَاَدَمَقَ، الشیء رَفِی
 الشیء۔ ایک شے کو دوسری میں
 داخل کرنا۔
 اِنْدَمَقَ۔ علیہ۔ بغیر اجازت کے
 داخل ہونا۔ نکلنا۔
 الدَمَقُ۔ برف ملی ہوئی سخت ہوا۔
 (یہ فارسی کلمہ ہے)
 الدَامِقُ۔ فَا۔ (دَمُوقٌ)
 مِنَ الرِّجَالِ۔ بُرَابِ فِیضِ آدَمِ۔
 المُنْدَمَقُ۔ داخل ہونے کی جگہ۔
 الدَمَقُ و الدَمَقُ۔ سفید ریشم۔
 دیباچ۔ ثوبٌ مَدَمَقٌ۔ ریشم
 سے بنا ہوا کپڑا۔
 دَمَلُ (ن) دَمُوكَا۔ اَلْاَرْنَبُ
 خرگوش کا تیز دوڑنا۔ الشیء
 کسی چیز کا چپکا اور چمک دار ہونا۔
 (دَمُکَا)۔ الشیء پھینکا۔
 الرِّشَاءُ۔ رسی بٹنا۔
 الدَامِکَةُ۔ مصیبت
 الدَمُوکُ۔ تیز گزرنے والا۔ کہتے
 ہیں۔ رَحَى دَمُوکُ۔ تیز پیسنے
 والی چکی۔
 المَدَمَلُ۔ روٹی بڑھانے کا یلین۔
 المَدَمَالُ۔ عمارت میں اینٹوں یا پتھروں
 کا ردّا۔ ج۔ مَدَامِکُ۔
 الدَمَمَلُ۔ بہت مضبوط۔ رَحَى
 دَمَمَلُ۔ بہت پیسنے والی
 چکی۔
 دَمَلُ (ن) دَمَلًا و دَمَلَانًا و اَدَمَلُ۔
 ع۔ الاسمن۔ زمین میں کھاد
 ڈال کر اس کو درست کرنا۔
 (دَمَلُ (ن) دَمَلًا)
 الدَمَلُ۔ پھوٹے کو اچھا کرنا۔
 دَمَلُ و دَمَلُ۔ بینہم۔
 صلح کرانا۔

<p>کسی کو جلانا۔ دَمِی (دس) دَمِی وُدُمِیَا۔ الجَرَحُ۔ زخم کا خون دیدینا۔ صفت (دَمِی) دَمِی تَدُمِیَّةٌ وَاَدُمِی اِدْمَاءُ۔ الجَرَحُ زخم سے خون نکالنا۔ اَدُمِی الرجل۔ کسی کا خون بہانا۔ دَمِی یَغْلَانِ۔ راستہ آسان کرنا قریب کرنا۔ اِسْتَدُمِی۔ من غَیْمَہ۔ قرضدار سے قرض برقی و نرمی وصول کرنا۔ الرجل۔ کسی کا سر جھکا کر ناک سے خون بہانا۔ الدَّیْبِیَّةُ خون لینا۔ الدَّامِی۔ فَا۔ جس کا خون بہتا ہو۔ وَدَامِی الشَّفَّةُ۔ غریب یا مانگنے کا حریص۔ الدَّامِیَّةُ۔ مَرُت الدَّامِی۔ وہ زخم یا چوٹ جس سے خون بہے۔ الدَّامُ۔ اس کی اصل دَمِی اور بعض کے نزدیک دَمَوُحِی۔ لام کلمہ حذف کیا گیا، کبھی اس کو میم سے بدل کر دَمُ شَدُ بولتے ہیں پتھیر دَمَان وَدَمِیَان دَمَوَان ج۔ دَمَاء وُدُمِی۔ تصغیر دَمِی نسبت کے لیے الدَّامِی و الدَّامِی (دَمِی) دَمُ الْاَخْوِیْن۔ ایک دوا ہے۔ بلی کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ ذُو دَمِی خون کا دعویدار۔ الدَّمَّةُ۔ خون کا ٹکڑا۔ الدُّمِیَّةُ۔ پتی خون کی طرح سُرخ بُت۔ ج۔ دَمِی۔ الدُّمِیَاءُ۔ خیر و برکت۔ الدَّمِی۔ بہت سُرخ رنگ گھوڑا وغیرہ۔ وہ تیر جس پر خون خشک ہو</p>	<p>الدُّمْلُوکُ۔ چکنا اور گول پتھر۔ دَمَنْ دَنْ دَمْنَا۔ الارض۔ زمین میں کھا دُالنا۔ دَمِنْ دَس دَمْنَا۔ النخل۔ کھجور کا سیاہ اور بدبودار ہونا۔ علیہ۔ کسی سے کینہ رکھنا۔ دَمَنْ۔ البعیرُ المکان۔ اونٹ کا کسی جگہ بیگنی کرنا۔ باب فلان۔ کسی کے دروازہ کو نہ چھوڑنا۔ فلاناً۔ کسی کو رخصت دینا۔ اَدَمَنْ۔ الشَّیْءُ۔ ہمیشہ کرنا۔ کہتے ہیں "رَجُلٌ مُدَمِّنٌ خَمْرًا" ہمیشہ شراب پینے والا آدمی۔ تَدَمَّنَ۔ المکانُ اِدْمَاءُ۔ کسی جگہ یا پانی کا اونٹ۔ یا بکریوں کی بیگنیوں سے پلید ہو جانا۔ الدَّمَنْ۔ مص۔ کھجور کے درخت کی بدبو اور سیاہی۔ الدَّمَنْ وَاَلْدَمَانُ۔ گوبر کھا دِراکھ کھجور کی بو۔ کہتے ہیں "هُوَ دَمَنْ" مَالٌ وُدَمَالٌ کا منتظم ہے۔ الدَّمْنَةُ۔ گھر کے نشانات حوض میں بقیر پانی، گھوڑا ج۔ دَمَنْ و دَمَنْ خَضْرَاءُ الدَّمَنْ وَخَضْرَاءُ الدَّمَنْ۔ گھوڑے پر آکا ہوا سبزہ یہ دونوں مثالیں ان چیزوں کے لیے بولی جاتی ہیں جن کا ظاہر اچھا ہو اور باطن شراب و ناکارہ۔ الدَّمْنَةُ۔ پرانا بیٹھا ہوا کینہ۔ فِي قَلْبِهِ دَمْنَةٌ۔ اس کے دل میں پرانا کینہ ہے۔ دَمِیَّة (دس) دَمَمًا۔ الرَّمْلُ۔ ریت کا سخت گرم ہونا۔ دَمَمْتُهُ۔ الشَّمْسُ۔ دھوپ کا</p>	<p>دَمَل (دس) دَمَلًا وَاِنْدَمَل و اِدَمَل۔ الجَرَحُ۔ زخم کا اچھا ہونا۔ دَامَلَهُ۔ مدارات کرنا۔ نرمی سے سلوک کرنا۔ تَدَمَل۔ المکانُ۔ کسی جگہ کا کھاد سے درست ہو جانا۔ تَدَامَل۔ القومُ۔ آپس میں صلح کرنا۔ الدَّمَلُ۔ مص۔ نرمی۔ الدَّمَلُ وَاَلْدَمَلُ۔ پھوٹا۔ پھنسی۔ واحد۔ دَمَلَةٌ۔ ج۔ دَمَامِل و دَمَامِیل۔ الدَّمَالُ۔ دریا کا بہاؤ میں لایا ہوا خس و خاشاک۔ سسڑی ہوئی سیاہ کھجوریں۔ جہانوروں کی بینگیاں اور مٹی وغیرہ جو ان کے پاؤں میں روندی گئی ہو۔ کھا د۔ کہتے ہیں "هَذَا دَمَالٌ ذَاکَ" یہ اس کا مصلح ہے۔ الدَّمَالُ۔ زمین کو کھا دِوال کر درست کرنے والا۔ دَمَلَجَ دَمَلَجَةً وُدَمَلَجًا۔ الشَّیْءُ۔ کسی شے کو اچھی طرح ڈھاننا۔ الدَّمَلَجُ وَاَلْدَمَلَجُ۔ ج۔ دَمَالِج و (الدَّمْلُج)۔ ج۔ دَمَالِج۔ بازو بند۔ پہنچے۔ کہتے ہیں "اَلْتَقَى عَلَیْهِ دَمَالِجُهُ" اس نے اپنا بوجھ اس پر لا دیا۔ دَمَلَحَهُ۔ راضی کرنا۔ دَمَلَقَهُ۔ چکنا کرنا۔ ہموار کرنا۔ حَجَرٌ دَمَلَقٌ وُدَمَلِیْق و دَمَالِیْق)۔ چکنا پتھر۔ دَمَلَكْ۔ الشَّیْءُ۔ چکنا کرنا۔ تَدَمَلَكْ۔ چکنا ہونا۔ الشَّدِی۔ پستان کا گولائی میں اچھڑنا۔</p>
--	--	---



گیا ہو۔

دَقَّ (دَن) دَنَّا وَدَقَّ - الذَّبَابُ -
 مکھی کا بھنبھنا۔ (دَنِيْنَا)
 الرجلُ گنگنا۔ غیر مفہوم کلام کہنا۔
 دَقَّ (دَس) دَقْنَا - كَوْزَه پشت ہونا۔
 جھکی ہوئی کمر والا ہونا۔ صفت۔
 دَاَدَقَّ مَوْنَتٌ - دَقَّاءُ - ج - دُنُّ
 - بَيْتٌ اَدَقَّ - پست مکان۔
 اَدَقَّ - بِالْمَكَانِ - کسی جگہ اقامت کرنا۔
 الدَّقَّ - بِطَرَاكَا جَوَازِيْنِ میں گر لھا کھود
 کر رکھا جاسکے۔ ج - دَقَّانٌ -

الدَّقِيَّةُ - کلاہ۔
 الدَّقِيَّةُ - چوٹی کی طرح ایک جانور۔
 دَقَّاقٌ دَقَّاقٌ دَقَّاقٌ - ذَلِيلٌ وَ
 خَسِيسٌ ہونا۔ صفت۔ (دَقَّاقِي)
 ج - اَدَقَّاءُ وَدَقَّاءُ -

دَقَّاقِي (دَس) دَقَّاءُ - الرجلُ - کبڑا ہونا
 صفت (اَدَقَّاءُ) مَوْنَتٌ - دَقَّاقِي -
 اَدَقَّاءُ - ادنی سواری پر سوار ہونا۔

دَقَّاقٌ - دَقَّاقٌ - دَقَّاقٌ -
 دَقَّاقٌ - کیسکی پر اکسانا۔
 الدَّقِيَّةُ - برائی - نقص۔
 الدَّقِيَّةُ وَالدَّقِيَّةُ وَالدَّقِيَّةُ -
 پست قد - ہونا۔

دَقَّاقِي (دَن) دَقَّاقٌ - الامرُ - کسی کام کو
 بختگی اور مضبوطی سے کرنا۔

دَقَّاقِي (دَن) دَقَّاقٌ وَدَقَّاقٌ - ذَلِيلٌ
 ہونا۔ سر جھکانا۔

دَقَّاقِي (دَن) دَقَّاقٌ - بوجھ کی وجہ سے
 سست چلنا۔

دَقَّاقِي - مَنكسِرٌ وَفَوْتٌ ہونا۔ سر جھکانا۔
 گھریں رہنا۔

الدَّقِيَّةُ - فحش گو۔ بد زبان۔
 دَقَّاقٌ دَقَّاقٌ - الذَّبَابُ - مکھی کا
 بھنبھنا۔ الرجلُ - کسی کا گنگنا۔

اور غیر مفہوم و مبہم کلام بولنا۔
 حَوَّلَ الْمَاءَ - پانی کے گرد گھومنا۔
 الدَّقِيَّةُ - گنگنا ہٹ۔ بھنبھنا ہٹ۔
 گنگنی کی وجہ سے سیاہ پودا۔
 دَقَّرَ الدَّقِيَّةُ رَسَدٌ رَسَدٌ - دینا رہنا
 - دَقَّرَ الْوَجْهَ - چہرہ کا چمکنا۔
 دَقَّرَ - بہت دیناروں کا مالک ہونا
 الدَّقِيَّةُ - سونے کا ایک پرانا سکہ۔
 ج - دَقَّاقِي - حَشِيَّةُ الدَّقِيَّةِ
 ایک قسم کا پودا۔

دَقَّاقِي (دَس) دَقَّاقٌ وَدَقَّاقٌ -
 عِرْضُهُ اَوْ تَوْبُهُ اَوْ خُلُقُهُ -
 عزت و اخلاق کا عیب دار ہونا۔
 اور کپڑے کا میلنا ہونا۔ صفت۔
 (دَقَّاقِي) ج - اَدَقَّاقٌ وَدَقَّاقِي
 دَقَّاقٌ - میلنا کرنا - دَقَّاقٌ سَوَّءٌ
 خُلُقُهُ - اس کی بد خلقی نے اس
 کو عیب دار کر دیا۔

دَقَّاقِي - میلنا کچھلا ہونا۔
 الدَقَّاقِي - مَص - میل کچھل ج - اَدَقَّاقِي
 المَدَّقِي - عِيُوبٌ - میلی گندی جگہیں۔
 کہتے ہیں - هُوَ يَتَصَوَّنُ مِنْ
 الْأَدْقَائِ وَالدَّقَّاقِي - وہ
 عیوب سے اپنا دامن بچاتا ہے۔

دَقَّاقِي (دَن) دَقَّاقٌ وَدَقَّاقٌ - كَيْنٌ ہونا
 بے خیر ہونا۔ صفت (دَقَّاقِي) وَ

دَقَّاقِي وَدَقَّاقِي وَدَقَّاقِي -
 دَقَّاقِي - بھوکا ہونا۔ ذلیل ہونا۔ کینہ ہونا۔

اَدَقَّاقِي - نیکوں کی راہ چلنا۔ رجلٌ
 (دَقَّاقِي) بے خیر اور بے فیض

آدمی۔ کہتے ہیں - هُوَ مِنْ
 دَقَّاقِي النَّاسِ - وہ ذلیل لوگوں

میں سے ہے۔
 دَقَّاقِي (دَس) دَقَّاقٌ - الْمَوْنَتُ
 بیمار کا مرض کی شدت سے قریب

الموت ہونا۔ الشَّمْسُ
 سورج کا زرد پڑ کر ڈوبنے کے
 قریب ہونا۔ الامرُ - کام کا
 نزدیک ہونا۔

اَدَقَّاقِي - الْمَرِيضُ - بیماری کی شدت
 کی وجہ سے بیمار کا قریب الموت
 ہونا۔ الشَّمْسُ - سورج کا
 زرد پڑ کر غروب کے قریب ہونا۔
 - الْمَرَضُ - بیماری کا کسی
 کو تباہ کر دینا۔ الشَّيْءُ -
 قریب کرنا۔

الدَّقَّاقِي - مَص - سخت مَرَضٌ بیماری
 مَرَضٌ - بیماری کا مَرِيضُ - مفرد جمع
 مذکر و مؤنث سب میں یکساں آتا
 ہے، کہتے ہیں - كَادَتِ الشَّمْسُ
 تَكُونُ دَقَّاقًا - سورج ڈوبنے کے
 قریب ہے۔

الدَّقَّاقِي - لمبی بیماری کا مَرِيضُ - ج -
 اَدَقَّاقِي - مَوْنَتٌ دَقَّاقِي - ج - دَقَّاقِي
 دَقَّاقِي - ترجمی نگاہ سے دیکھنا کنکھیں
 سے دیکھنا۔

دَقَّاقِي (دَن) دَقَّاقٌ - حَصْرِيصٌ ہونا۔
 باریک امور نکالنے کا حصریص ہونا۔

مَوْنَتٌ دَقَّاقِي - ج - دَقَّاقِي -
 دَقَّاقِي - الْوَجْهَ - علم یا بیماری سے

بھوکا نڈھال ہونا۔ الْمَوْتُ
 قریب الموت ہونا۔ الْعَيْنُ -

آنکھ میں گڑھے پڑنا۔ حَقْلٌ پڑنا۔
 - الشَّمْسُ - سورج کا ڈوبنے

کے قریب ہونا۔ الرجلُ -
 مَرَضٌ - الیہ الْمَنظَرُ - کسی پر

ملکشی لگانا۔ کسی کو گھورنا۔
 الدَّقَّاقِي - گہروں میں ایک قسم کا دانہ ہوتا ہے

الدَّقَّاقِي - احمق - بھور - (وَالدَّقَّاقِي)
 درہم کا چھٹا حصہ - ج - دَقَّاقِي وَ

دَوَانِیُّ (فارسی لفظ ہے،
دَنْقَس۔ ترچھی نظر سے دیکھنا —
بینہم۔ فساد ڈالنا۔
دَنْکَس۔ رنی بیتہ۔ گھر میں چھپ کر
بیٹھنا اور لوگوں کی حاجتوں کے
لیے نہ نکلنا۔
دَنَا یَدُ نَوْدُ نَوْدَاوَدَ نَوْدَاوَدَ لِلشَّیْءِ
مِنْهُ وَالْبَیْءِ۔ قریب ہونا۔
صفت (دَانِ) ج۔ دَنَاةٌ۔
دَنَیْ یَدَنَیْ (س)، دَنَاوَدَ نَائِیةٌ۔
گھٹیا اور ردی ہونا۔ صفت
دَنَیْ، ج۔ اَدْنِیَاءُ۔
دَنَاةٌ تَدْنِیةٌ۔ نزدیک کرنا —
دَنَیْ فِی الْأُمُورِ۔ ہر چھوٹے بڑے
امور کے پیچھے لگنا۔
دَانِی صَدَانَاةٌ۔ القید۔ بیڑی کو
سخت کرنا — بَیْنَ الْأُمُورِ
دونوں امور کے وسط میں ہونا۔
— الْأُمُورِ۔ نزدیک ہونا۔
قریب ہونا۔
اَدْنِی اِدْنَاءٌ۔ تنگ زندگی گزارنا۔
قریب ہونا۔ قریب کرنا۔ کسی کو کسی
کے نزدیک کرنا — السَّوَرِ۔
پردہ لٹکانا۔
تَدْنِی۔ تھوڑا تھوڑا قریب ہونا۔ کہتے ہیں۔
"بَعِیدٌ یَتَدْنِی حَبِیرٌ مِنْ قَرِیبٍ
یَتَبَعُدُ" وہ بعید ہو تھوڑا تھوڑا
قریب ہوتا جائے اس قریب سے
بہتر ہے جو دور بھٹتا جائے۔
تَدَانِی۔ تَدَانِیَاءُ۔ القوم۔ ایک دوسرے
کے قریب ہونا — تَدَانَتْ اِبْلَةُ
اَوْتُولِ کَاکَمِ ہونا اور کمزور ہونا۔
اَدْنِی۔ قریب ہونا۔
اِسْتَدْنَاةٌ۔ قریب آنے کی درخواست
کرنا۔

الدَّناوَةُ۔ مص۔ قرابت۔ کہتے ہیں۔
"بَیْنَهُمَا دَنَاوَةٌ" ان کے درمیان
قرابت ہے۔
الْاَدْنِی۔ دَنَیْ کا اسم تفصیل۔ ج۔
اَدَانِ وَاَدْنُونِ۔ مؤنث۔ دُنْیَا۔
ج۔ دُنْیِ۔ الْاَدْنُونِ۔ نسب میں
قریب ترین رشتہ دار لوگ۔
الدُّنْیَا۔ موجودہ زندگی۔ ج۔ دُنْیِ۔
نسبت کے لیے دُنْیَوِی و
دُنْیَاوِی و دُنْیِ، کہتے ہیں "هُوَ
فِی دُنْیَا دَانِیةٌ" وہ آسودہ زندگی
میں ہے "هُوَ اَبْنُ عَجَہِ دَنَیْ وَ
دُنْیَاوِی دُنْیَاوِی دُنْیَاوِیةٌ" وہ
نسب سے متعلق ہونے والا چچا زاد
بھائی ہے۔
الْمُدْنِی۔ مفع۔ مِنَ الْوَجَالِ۔ کمزور۔
نَاقَةُ مُدْنٍ و مُدْنِیَّةٌ۔ وضع حمل
کے قریب ہونے والی اونٹنی۔
دَهْنَه (ن) دَهْنًا۔ بھٹانا۔ دفع کرنا۔
دَهْدَمَ۔ الْبِنَاءِ۔ عمارت کو ڈھانا۔
گرانہ۔
تَدَهْدَمَ۔ ڈھینا۔ گرانہ۔
دَهْدَه۔ و دَهْدِی۔ الْحَجَرِ۔ پتھر
کو لڑھکانا۔
تَدَهْدَه وَتَدَهْدِی۔ لڑھکانا۔
الدُّهْدُوكَةُ و الدُّهْدُوكَةُ و
الدُّهْدِیَّةُ۔ گوبر کی گولی جس کو
گوبر لڑھکاتا ہے۔
الدُّهْدَا و الدُّهْدَاءُ۔ چھوٹے
اونٹ۔ کہتے ہیں۔ "مَا اَدْرِی
اَتِی الدُّهْدَاءُ هُوَ" میں نہیں
جانتا وہ کون آدمی ہے۔
دَهْرَرَف، دَهْرَا۔ القوم و بالقوم
اَمْرٌ مَكْرُوہٌ۔ قوم کو مکروہ، و
نا پسند بات پہنچنا۔

الدَّهْرُ۔ لمبا زمانہ۔ دراز مدت —
دَهْرُ الْإِنْسَانِ۔ وہ زمانہ جس
میں انسان زندہ ہے۔ یہ "عصر"
کے ہم معنی ہے۔ مصیبت۔ ابتداء
عادت۔ کہتے ہیں "مَا ذَاكَ
یَدَّهْرُی" یہ میری عادت نہیں
مَا دَهْوِی بَكَدَا۔ یہ میری
غایت و انتہا نہیں۔ غلبہ۔ ج۔
اَدَّهْرُ و دَهْوَسُ۔ کہا جاتا ہے
"لَا اَتِیہ دَهْرُ الدَّاهِرِیْنَ"
میں اس کے پاس کبھی نہیں
آؤں گا۔
الدَّهْرِی۔ مادہ پرست جو زمانہ کو غیر
مخلوق جانتا ہو۔
الدَّهْرِیَّةُ۔ عالم کو قدیم ماننے والا
فرقہ۔
الدَّهْرِی۔ بہت بوڑھا — دَهْوُ
دَاہُو و دَهْوِی۔ (مبالغہ) یعنی
شدید و طویل۔
الدَّهَارُ و الدَّهَارَةُ۔ غیر میعادِی
معاطل کرنا۔
الدَّهَارِیُّ۔ پرانے زمانے۔ اس کا
واحد نہیں۔ مصائب زمانہ۔
مصیبتیں۔ آفتیں۔ دَهْوَسُ
دَهَارِیُّ۔ لمبے زمانے۔ "كَانَ
ذَلِكَ فِی دَهْرِ الدَّهَارِیْرِ" یہ
پرلے زمانہ میں تھا۔
دَهْسُ (س) دَهْسًا۔ المکان۔
کسی جگہ کا نرم ہونا۔ صفت
(اَدَّهْسُ) مؤنث۔ دَهْسَاءُ۔
ج۔ دَهْسُ۔
الْاَدَّهْسُ۔ سرخی مائل سیاہ۔
اَدَّهْسُ۔ القوم۔ نرم زمین پر پلنا۔
الدَّهْسُ۔ نباتات کو ابھی اس پر
سبزی غالب نہ ہوئی ہو۔ وہ زمین



کہ ابھی ابھی طرح اس پر
روئیدگی ظاہر نہ ہوئی ہو۔ ج
آدھاس۔
دھاسۃ الخلق۔ طبیعت کی نرمی۔
نرم مزاجی۔
دھش (دس) دھشاً و دھش۔
حیران ہونا۔ صفت (دھش) و
مدھوش و دھشان،
دھشہ و آدھشہ۔ حیران کرنا۔
مدہوش کرنا۔
دھق (د) دھقاً۔ الکاس
پیالہ بھرنا۔ الماء۔ پانی کو
زور سے کرنا۔ الشی۔
کسی چیز کو ٹوڑنا کاٹنا۔ ک۔
مارنا۔
آدھق۔ الکاس۔ بھرنا۔ ک
جلدی کرنا۔
آدھقت۔ الحجارة۔ پتھروں کا
آپس میں سختی سے پیوست ہونا۔
الدھق۔ شکنجہ جس میں مجرموں کی
پنڈیاں ڈالی جاتی ہیں۔
الدھاق۔ من الکؤس۔ بھرا ہوا
پیالہ۔ کاس دھاق۔ لبالب
پیالہ۔ ماء دھاق۔ بہت پانی۔
دھقن۔ القوم فلاناً۔ قوم کا کسی کو
رئیس بنانا۔ چودھری بنانا۔
تدھقن۔ چودھری یا رئیس ہونا۔
الدھقنۃ۔ سرداری۔ ریاست
الدھقان والدھقان۔ چودھری۔
زیددار۔ مہر دار۔ ج۔ دھاقنۃ
ودھاقین۔ الدھقان۔ تاجر۔
دھک (د) دھکاً۔ الشی۔ پیسنا۔
ٹوڑنا۔ الأرض۔ روندنا۔
الدھلیز۔ ڈیوڑھی۔ لمباتنگ راستہ
ج۔ دھالیز۔ آباء الدھالیز

لاوارث بچے جو زمین پر پھینکے ہوئے
اٹھالیے جائیں گے۔ بچے بچے
دھک (د) دھکاً۔ دھک (دس) دھکاً۔
الامو۔ چانک آکرنا
دھکت۔ النار القدس۔ آگ کا
ٹانڈی کو سیاہ کرنا
آدھک۔ کسی کو ٹھیک کرنا۔
آدھم و آدھام۔ آدھیماماً۔
الفرس۔ گھوڑے کا سیاہ
ہونا۔
الدھم۔ بڑی تعداد۔ ج۔ دھوم
الآدھم۔ سیاہ اور پرانے نشانات
و آثار۔ مونٹ۔ دھماء
ج۔ دھم۔ الآدھم۔ بڑی
ج۔ آدھم۔
الدھم۔ ماہ قمری کی آخری تین راتیں۔
خلق کہتے ہیں "آئی الدھم
هو" وہ اللہ کو کسی مخلوق ہے۔
الدھمۃ۔ سیاہی۔
الدھماء۔ مونٹ۔ الآدھم۔ ٹانڈی
لوگوں کا گروہ۔ قمری ماہ کی
انیسویں رات۔ ایک قسم کی
گھاس جس سے چڑا رنگتے ہیں۔
حدیقۃ (دھماء و مدھامۃ)
وہ باغ جس کی سرسبزی مائل بہ
سیاہی ہو۔
الدھیم و الدھیماء و أم الدھیم
مصیبت۔ احمق بے وقوف۔
دھمبج۔ الشیخ۔ بوڑھے کا بیڑی
والے کی طرح آہستہ چلنا۔
الخبز۔ خیر میں کچھ زیادتی
کر کے بیان کرنا
الدھمبج والدھامبج۔ ہر بڑے جسم
والی شے۔ دو کوٹان والا اونٹ
دھن (د) دھناً و دھنۃ۔ الرأس

سر میں تیل یا خوشبو لگانا۔
الشی۔ کسی شے کو تر کرنا۔ تیل
لگانا۔
دھنۃ دھن و دھنۃ دھنۃ و
آدھنۃ۔ دھوکا دینا۔ فریب دینا۔
منافقت کرنا۔ و آدھن
علیہ۔ باقی رکھنا۔ کہا جاتا ہے۔
"مَا آدھنْتُ إِلَّا عَلَى نَفْسِكَ"
اپنے سوا تو نے کسی پر کچھ باقی
نہیں رکھا۔
دھن (د) دھن (د) دھن و دھنۃ
الناقۃ۔ اونٹنی کا کم دودھ
والی ہونا
دھن۔ بمعنی دھن۔ تیل لگانا۔ تر کرنا۔
تدھن و آدھن۔ تیل سے چکن ہونا۔
الدھن۔ مص۔ تھوڑی بارش جو زمین
کو تر نہ کرے۔
الدھن۔ دھن کا اسم۔ دھن
الشی۔ کسی چیز کا تیل۔ ج
آدھان و دھان۔
الدھنۃ۔ تھوڑا سا تیل۔ هو طیب
الدھنۃ۔ وہ عمدہ خوشبو
والا ہے۔
الدھناء۔ بیابان۔ ریگستان۔ سرخ
گھاس۔
الدھان۔ تیل لگانے والا۔ تیل
بیچنے والا۔ تیلی۔
الدھان۔ ادھوڑی۔ پھینکے کی جگہ۔
وارنش۔ پینٹ۔
الدھین۔ تیل لگایا ہوا کمزور۔
الدھن۔ تیل لگانے کا آلہ۔ وارنش
کرنے کا برش۔ تیل کی شیشی
ج۔ مدھن۔
دھوس۔ الشی۔ کسی کو گڑھے میں
گران۔ بھینکنا۔ دیوار گرانا۔ لقمہ

نگنا۔

تَدَّهَوَسَ۔ گرھے میں گرنا۔ رات کا گزر جانا۔

دَہی (د)، دَہیَا و دَہی۔ فَلَائِی کسی کو چالاک کی طرف منسوب کرنا عیب لگانا۔ مرتبہ گھٹانا۔ کسی کو مصیبت پہنچانا۔

دَہی (دس)، دَہیَا و دَہَاوَة و دَہَاو۔

چالاک اور ہوشیار ہونا۔ صفت

(دَاہ، ج۔ دَہَاوَة و دَہَاو، ج

دَہُون۔ و۔ دَاہِیَة) ج

دَوَاہ۔ اس میں تاہم بالغ کر ہے

کہتے ہیں۔ ”رجلٌ دَاہِیَة و

رَمْلَة دَاہِیَة“

تَدَّہی۔ چالاک و ہوشیار ہونا۔

دَاہی مُدَاہَاة و دَہَاو۔ القوم۔

ان پر مصیبت ڈالنا۔

تَدَاہی۔ بتکلف ہوشیاری کرنا۔

الدَّہَاو۔ زیرکی۔ ہوشیاری۔ مکر

و حیلہ۔

الدَّہِیَة۔ ناپسندیدات۔ مصیبت

بڑا معاملہ۔ ج۔ دَوَاہ۔

دَاہِیَة دَہِیَا۔ سخت مصیبت۔

دَوَاہی الدَّہر۔ حوادث الدھر۔

الدَّہی۔ دانا۔ دور اندیش۔ ج۔

أَدَہِیَا و دَہَوَا۔

دَاہِیَا و دَہِیَا، دَاہِیَا و دَہَوَا و

أَدَاہِیَا و دَاہِیَا و دَاہِیَا و

بیمار ہونا۔ صفت دَاہِی و

مُدیعی

أَدَاہِیَا۔ بیمار بنانا۔

الدَّہِی۔ بیماری۔ ج۔ أَدَاہِیَا۔ دَاہِیَا

الذَّیْب۔ بھوک۔ دَاہِیَا التَّغَلِب

وہ بیماری جس سے سر کے بال گر

جاتے ہیں۔ اس کو ”الْحَاصَة“

بھی کہتے ہیں۔ اگر کھال بھی گرنے

لگے، تو یہ بیماری ”دَاہِیَا الْحِیَّة“

کہلاتی ہے۔ دَاہِیَا الْفِیْلِ۔

فیل پاکی بیماری۔ کہتے ہیں۔ ”بہ

دَاہِیَا الْغَلِی“ یعنی اسے کوئی

بیماری نہیں۔ ”وَفَلَائِی مِیْتُ

الدَّہِی“ فَلَائِی شخص کو اگر ایذا

پہنچائی جائے تو وہ پھر بھی کینہ

نہیں رکھتا۔

الدَّہِی۔ بیمار۔

دَاہِی (د)، دَاہِیَا۔ خدمت کرنا۔

الدَّاجِلَة۔ فوج کے پرو۔ خادم وغیرہ

چھوٹی چھوٹی ضرورتیں۔ کہتے

ہیں۔ ”مَا تَرَکْتُ حَاجَةً وَلَا

دَاجِلَةً“ میں نے چھوٹی بڑی کوئی

حاجت نہیں چھوڑی۔

دَاہِی (د)، دَاہِیَا۔ البَطْنُ۔ پیٹ

کا پھول کر لٹک جانا۔ الشَّجْوَة

درخت کا بڑا ہونا۔ صفت

دَاہِیَة۔ ج۔ دَاہِیَة۔

دَوَّح۔ المال۔ جہا کر دینا۔

البَطْنُ۔ پیٹ کا پھول کر لٹک جانا

تَدَوَّح و اِنْدَاہ۔ البَطْنُ۔ پیٹ کا

پھولنا اور لٹک جانا۔ اِنْدَاہ

الشیء کسی چیز کا پھیلنا۔ چوڑا ہونا۔

الدَّوْحَة۔ بڑا پھیلا ہوا درخت۔ بڑا

سائبان۔ ج۔ دَوَّح۔ جج۔ اَدَوَاہ

الدَّوْح۔ بڑا وسیع گھر۔

الدَّاح۔ بچوں کا خوش شکل ہونا۔ ریشم

کا بٹا ہوا کنگن۔

الدَّاحَة۔ دنیا۔

الدَّوَاہ۔ بہت بلند۔

دَاہِی (د)، دَاہِیَا۔ ذلیل ہونا۔ عاجزی

اور فروتنی کرنا۔ البِلَاد۔

ملک پر اپنا اقتدار جمانا، اور

غالب ہونا۔

دَوَّح۔ البِلَاد۔ و دَوَّحَہَا، ملک

میں چکر لگا کر اس کے حالات سے

واقفیت حاصل کرنا۔ ملک پر

غالب آکر اس کو اپنے قبضہ میں

لے آنا۔ الرجل۔ کسی

کو ذلیل و عاجز کرنا۔

الْوَجْعُ رَأْسًا۔ درد سر کا سر کو

چکر ادینا۔

أَدَاہِی۔ ذلیل کرنا۔

الدَّوْحَة۔ چکر۔ دوران سر اس کے

یہ فیصح لفظ الدَّوَار اور الھُدَام

ہے۔

لِیْلٌ دَاہِی۔ تاریک رات۔

دَاہِیَا دَاہِیَا دَاہِیَا دَاہِیَا دَاہِیَا

أَدَاہِیَا دَاہِیَا دَاہِیَا دَاہِیَا دَاہِیَا

کھانے میں کیڑا پڑنا۔ صفت۔

مَدَوْد۔

الدَّوْدَة۔ کیڑا۔ ج۔ دَوْدُو دَوْدَان

دَوْدَة القَو۔ ریشم کا کیڑا۔

الدَّوَاد۔ چھوٹے کیڑے۔ تیز رفتار

آدمی۔

الدَّوْدِی۔ دَوْدِی کی تصغیر۔ یعنی چھوٹا کیڑا۔

الدَّوْدَاہ۔ جھولا۔ ہنڈولا۔ ج

دَوَادِی۔

الدَّیْدَاہ۔ تیز دوڑ۔

الدَّوَادَار والدَّوْدِیَار۔ منشی کا تب

دَاہِی (د)، دَوْرَا و دَوْرَانَا۔ گھومنا۔

چکر کھانا۔ الدَّہْر۔ زمانہ

کا پلٹا کھانا۔ بدلتا۔ بالشئی

وعلیہ وحوْلہ۔ کسی شے کے

گرد گھومنا۔

دَیْر۔ بہ۔ سر کا چکرانا۔ دوران سر

لاحق ہونا۔

دَوْدَة۔ گول بنانا۔ د و بہ



چکر دینا۔
دَاوَرًا مَدَاوَرَةً وِدَاوَرًا۔ کسی کے
ساتھ پھرنا۔ علی الامر
کسی کام کو انجام دینا۔ الامور
کاموں کو انجام دینے کے لیے غور و
فکر کرنا۔

اَدَارَ اِدَارَةً۔ الشیء گھومنا۔
— دَوَبَّہ۔ گھمانا۔ چکر دینا۔
— الشیء۔ لینا۔ اَلْاُمْرَہ
احاطہ کرنا۔ — علیہ۔
لازم کرنے کا ارادہ کرنا۔ —
عَنْ حَقِّہ۔ حق کو چھوڑ دینے کی
خواہش کرنا۔

اَدِير۔ بلہ۔ سرچکرانا۔ دوران سر
لاحق ہونا۔

تَدَوَّرَ۔ گول ہونا۔
تَدَوَّرَ الْبُعْثَہ۔ کسی قطعہ زمین پر گھر
بنانا۔ رہائش اختیار کرنا۔
اِسْتَدَارَ اِسْتِدَارَةً۔ گھومنا۔
— الشیء۔ گول ہونا۔

— الشیء دَوَبَّہ۔ چکر دینا۔
کتے ہیں۔ اِسْتَدَارَ بِمَا فِي
قَلْبِی۔ اس نے میری دلی بات کا
پتہ لگالیا۔

الدَّارُ مَوْنٌ ہے کبھی مذکر بھی آتا ہے۔
گھر مکان۔ ج دَوَّرَ دَوَّارًا
وَادَوَّرَ وَاَدَوَّرَةً وِدَيَارَةً و
اَدَوَّارًا وِدَوَّارَاتٍ وِدَيَارَاتٍ و
دَوَّارًا وِدَوَّارًا۔ الدَّارُ۔
شہر قبیلہ۔ سال۔ زمانہ۔
دَارُ الْقَوَّاسِ۔ آخرت۔
دَارَان۔ دنیا و آخرت۔
دَارُ الْحَرْبِ۔ دشمن کا ملک۔
الدَّارَةُ۔ محل۔ قبیلہ۔ پہاڑوں کے
درمیان کی وسیع زمین۔ دائرہ۔

چاند کا بالہ۔ ج۔ دَارَاتُ و
دَوَّرَ۔ — دَاوَرَةً
وَالْتَدَوَّرَ۔ — مِنَ الرَّمْلِ
گول ریتی جگہ۔ دَارَاتُ الْعَرَبِ
عرب میں مشہور مقامات ہیں، جو
ایک سو دس سے زائد ہیں۔

الدَّارِیُّ۔ عطر فروشن۔ ملاح جو
پتوار کا نگہبان ہو۔ چوپایوں اور
مویشیوں کا مالک۔ کتے ہیں۔
”مَا فِي الْمَكَانِ دَارِیُّ اَوْ دَوَّرِیُّ“
اَوْ دَيَّارٌ اَوْ دَيُّوْرٌ۔ یعنی گھریں
کوئی نہیں ہے۔

الدَّوَّرِیُّ۔ پڑھنا۔
الدَّارِیَّةُ۔ ہمیشہ گھریں رہنے والا۔
تاء مبالغہ کی ہے۔

الدَّوْرُ۔ مص۔ حرکت۔ گردش۔
چکر۔ ج۔ اَدَوَّارٌ۔ دفعہ۔
— عِنْدَ الْاَطْبَاءِ۔ بخار کی باری
موسیقی کے نزدیک دو بار دوسے
زائد شعروں کا قطعہ۔ — عَلِمُ
الْاَدَوَّارِ۔ فن موسیقی۔

دَوَّارُ الشَّمْسِ۔ سورج کھی۔
الدَّوَّارُ والدَّوَّارُ۔ سرکا چکر۔ عام
لوگ اس کو ”دَوَّخَہ“ کہتے ہیں۔
الدَّوَّارُ والدَّوَّارِیُّ۔ بہت پھرنے
والا کہتے ہیں۔ ”الدَّهْرُ دَوَّارٌ و
الدَّوَّارِیُّ یَا لَیْلًا نَسَانٌ“ زمانہ
انسان کے ساتھ الٹنے پلٹنے والا ہے۔
الدَّوَّارُ۔ ریت کا ایک گول ٹیلہ۔ منزل۔
الدَّوَّارَةُ۔ پڑکار۔

الدَّوَّارَةُ والدَّوَّارَةُ۔ مِنَ الرِّائِسِ
سرکا گول حصہ۔ — دَوَّارَةُ
الْبَطْنِ۔ بکری کا اوجھ۔
الدَّارِیَّةُ۔ جو کسی چیز کو گھیرے ہوئے
ہو۔ حلقہ۔ انسان کی پیشانی کے

پاس بالوں کی بھوری۔ گھوڑے کے
بدن پر بالوں کی بھوری۔ مصیبت۔
مندیں کے نزدیک وہ ہوا سطح
جس کو ایک گول خط گھیرے۔ اس
خط کو محیط کہتے ہیں مرکز دائرہ۔
دائرہ کے بالکل بیچ کا نقطہ۔ قطر
دائرہ۔ وہ خط مستقیم جو دائرہ کو
دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر دے
اور مرکز دائرہ پر گزرتا ہوا جائے۔

ج۔ دَوَّارِیُّ۔ کتے ہیں۔ ”دَارَتْ
عَلَيْہِہُ الدَّوَّارِیُّ“ ان پر زمانہ
کی آفتیں اور مصیبتیں ٹوٹ پڑیں۔
الدَّیْرُ۔ عابدوں کی رہائش گاہ۔
خانقاہ۔ ج۔ اَدِیْرَةُ دَوَّارِیَّةُ
وَاَدِیَارٌ۔

الدَّیْرَانِیُّ والدَّیَّارُ۔ دیر والا۔
خانقاہ والا۔

مَدَارُ الشیء۔ جس پر کوئی چیز چکر
کھائے۔ — الامر۔ کسی کا
دار و مدار۔

المُدَارَةُ۔ ڈول کی ایک قسم۔
پتھر سی۔

الدَّیْرُ۔ گورنر۔ منجر۔ منتظم۔
دَوَّرَن۔ الْقَاوْنُ وَخَوَّہ۔ ستار
یا سارنگی وغیرہ کے تار کسناد فارسی
کلمہ ہے، اس کے ہم معنی عربی لفظ
بَفَّ دَبَّطَ ہے۔

دَاوَسَ دَن، دَوَّاسَ دِیَّاسَا وِدِیَّاسَةً
— الشیء۔ پاؤں سے روندنا۔
— قُلَانًا۔ کسی کو ذیل کرنا۔

— السَّیْفُ۔ تلوار پر صیقل
کرنا۔ — وَاَدَّاسَ، الْمَوَزَّہ۔
فصل کو کاہنا۔

دَاوَسَ۔ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
فِي الْقِتَالِ۔ لڑائی میں ایک

دوسرے کو پاؤں سے پائمال کرنا۔
روندنا۔
الدَّيْسَةُ: گھنا جنگل۔ ج۔ دِيسٌ و
دِيسٌ۔
الدَّوْاسَةُ والدَّوَيْسَةُ: جماعت
گروہ۔
الدَّوْاسُ: بہادر۔ شیر۔
الدَّوْاسَةُ: تاک۔
الْمَدَّاسُ: جوتا۔ سلیپر۔
الْمِدْوَسُ والْمِدْوَسُ: پالش
کرنے کا آلہ۔ روندنے کی مشین۔
ج۔ مَدَّاسٌ وَمَدَّاسٌ۔
الْمَدَّاسَةُ: کھلیان۔
دَوَشْتُ (دس) دَوْشًا: عَيْتُهُ۔
بیماری سے آنکھ خراب ہونا۔
صفت۔ (أَدَوْشٌ) مؤنث۔
دَوْشَاءُ۔ ج۔ دُوشٌ۔
دَاغٌ (دن) دَوْنًا: القَوْمُ۔ قوم
میں بیماری کا عام طور سے پھیل
جانا۔ الطَّعَامُ۔ غلہ کا
ارزاں ہونا۔ دَاغَةُ الْحَوِّ۔
گرمی کا کسی کو تباہ کرنا۔ بگاڑ دینا۔
الدَّوْعَةُ: بے وقوفی۔ سردی۔
دَاغٌ (دن) دَوْنًا وَاَدَاغٌ: الدَّوَاءُ
وَنَحْوُهُ۔ دوا وغیرہ کو ملنا۔ مخلوط
کرنا۔ پانی میں پگھلا کر کاڑھا کرنے
کے لیے حرکت دینا۔ صفت۔
(مَدَّوْفٌ وَمَدَّوْفٌ و
دَالِفٌ)
دَاغٌ (دن) دَوْنًا وَدَوْنًا وَدَوْنًا
وَدَوْنًا: دُبا و لاغر ہونا۔
بیوقوف ہونا۔ صفت (دَاغِيٌّ)
الطَّعَامُ۔ پکھنا۔
أَدَاغِيٌّ: القَوْمُ بہ۔ قوم کا کسی
کو گھیر لینا۔

أَدَاغِيٌّ لِنَدِيَاغٍ: بَطْنُهُ۔ پیٹ
پھوننا۔
الدَّوْقَةُ والدَّوْقَانِيَّةُ: نرانی
فساد۔ حماقت۔
الدَّوْقُ: بیوقوفی۔
دَاغٌ (دن) دَوْنًا وَمَدَاغًا: القَوْمُ۔
مضطرب ہونا۔ بیمار ہونا۔
الشيءُ: کوٹنا۔ رگڑنا۔ پسینا۔
تَدَاوَكٌ: القَوْمُ۔ لڑائی یا فساد میں
ایک دوسرے کو تنگ کرنا۔
الدَّوْكَةُ والدَّوْكَةُ: جھگڑا۔
شر۔ فساد۔
الْمِدْوَكُ وَالْمَدَاكُ: پینے یا
رگڑنے کا پتھر۔
دَاغٌ (دن) دَوْلَةً: الزَّمَانُ۔ زمانہ کا
ایک حال سے دوسرے حال کی
طرف بدلتا۔ کہتے ہیں "دَاغٌ
لَهُ الدَّوْلَةُ" اس کے لیے
دولت الٹ پلٹ گئی۔ الوجَلُ
فی مَشْيِهِ۔ چھوٹے چھوٹے
قدموں سے تیز چلنا۔ بَطْنُهُ
پیٹ کا ڈھیلا ہونا۔ لٹکنا۔
الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔
(دَاغٌ دَوْلًا مشہور
ہونا۔
دَاوِلٌ مَدَاوِلَةً: اللّٰهُ الْآيَاتُ
بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ کا زمانہ کو
لوگوں کے درمیان ادل بدل کر
لانا یعنی اگر ایک زمانہ آج ایک کے
لیے ہے تو کل دوسرے کے لیے
— الْمَا شَيْءٌ بَيْنَ قَدَمَيْهِ
کبھی ایک قدم پر آرام لینا اور
کبھی دوسرے پر۔
أَدَاغٌ لِدَاغَةٍ: الشَّيْءُ۔ باری باری
سے ایک کے بعد دوسرے کو

دینا۔ اللّٰهُ بَيْنَ فُلَانٍ مِنْ
عَدُوِّهِمْ۔ غلبہ دلانا۔ فتح مندی
نصیب فرمانا۔ اللّٰهُ زَيْدًا
مِنْ عَمِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے
زید سے دولت لے کر عمرو کو
دے دی۔
تَدَاوَلَتْهُ: الْآيِدِيَّ۔ باری باری
سے لینا۔ چنا بچھرتے ہیں۔
"تَدَاوَلُوا الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ"
انہوں نے چیز کو باری باری سے لیا۔
أَدَاغٌ: بَطْنُهُ۔ پیٹ کا ڈھیلا ہو
کر زمین کی طرف لٹکنا۔ مَا
فِي بَطْنِهِ: لٹکنا۔ الشَّيْءُ۔
لٹکنا۔ القَوْمُ۔ قوم کا
ایک جگہ سے دوسری جگہ
منتقل ہونا۔
أَسْتَدَالَ: الْآيَاتُ۔ زمانہ کو اپنے
موانع کر لینا۔
الدَّوْلَةُ: مَصْ۔ دَاغٌ والدَّوْلَةُ
وہ شے جو لوگوں پر بدل بدل کر آتی
رہے۔ آج کسی کے لیے ہو، اور
کل کسی کے لیے۔ مال وغلبہ پر اسی
لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ارباب
سیاست کے نزدیک بادشاہ و
وزراء۔ حکومت۔ گورنمنٹ۔
ریاست۔ ج۔ دَوْلٌ وَدَوْلٌ۔
— كَانَتْ لَنَا عَلَيْهِمُ الدَّوْلَةُ۔
ہم کو ان پر غلبہ نصیب ہوا۔
وَالدَّهْرُ دَوْلٌ: یعنی زمانہ کو ایک
حال پر قرار نہیں بلکہ ادل بدل کر آتا
رہتا ہے۔
الدَّالَةُ: شَهْرٌ۔ ج۔ دَاغٌ۔
الدَّوْلَةُ: مصیبت۔ ج۔ دَوْلَاتٌ۔
الدَّالَةُ: غلبہ۔ فتح۔ کہتے ہیں۔
"دَوَالِيكَ" ایک کے بعد ایک



یعنی کام کو یکے بعد دیگرے کرو۔
مقصود تاکید ہوتی ہے۔ کہتے ہیں۔
”قَعَلْنَا ذَلِكَ دَوَائِكَ“ ہم نے
اس کو باری باری سے کیا۔
دَوَائِدُ دَوَائِدُ دَوَائِدُ دَوَائِدُ
دَوَائِدُ دَوَائِدُ دَوَائِدُ ثابت رہنا
دراز مدت رہنا۔ جاری رہنا۔
— الشَّيْءُ پھرنا۔ گھومنا۔
— الدَّلْوُ ڈول کا بھرنا۔
اور دَمَتِ تَدُوْمُ۔ (بکسر العین)
فی الماضي وصفها في المضارع۔
شاذ ہے۔ مَا دَامَ۔ افعال ناقصہ
میں سے ہے۔ کہتے ہیں۔ ”لَا
يَجُوزُ إِلَّا صَلَاحُ مَا دَامَ فَلَا تَنْ
حَاكِمًا“ یعنی جب تک وہ شخص
حاکم ہے اس وقت تک اصلاح
نہیں ہو سکتی۔ (— دَيْمًا)
السَّمَاءُ آسمان کا لگاتار بارش
برسنا۔

دَيْمِيَّةٌ وَأَدِيمِيَّةٌ۔ سرچرانا۔
دَوَمَتٌ۔ تَدُوْمَتَا الشَّمْسُ۔
وسط آسمان میں سورج کا گھومنا۔
حرکت کرنا — الخَمْرُ
شَارِبَهَا۔ شراب کا شرابی کے
سر کو چکر دینا — عَيْنُهُ
آنکھ کا حلقہ میں پھرنا۔ الشَّيْءُ۔
تر کرنا — الْعِمَامَةُ
پگڑی سر کے گرد لپیٹنا —
الطَّائِثُ۔ پرنہ کا ہوا میں چکر
لگانا — الزَّعْفَرَانُ فِي
الْمَاءِ۔ زعفران کو پانی میں رگڑ کر
گھسنا۔ — الْقِدْرُ۔ سرد پانی
کے چھڑکنے سے ہانڈی کے
جوش کو ٹھنڈا کرنا۔ —
بِالدَّوَامَةِ۔ لٹو سے کھینا۔

دَكَيْتَ۔ السَّمَاءُ۔ لگاتار برسنا۔
دَاوَمَ۔ عَلَى الْأَمْرِ۔ کسی کام پر ہمیشگی
اختیار کرنا۔ الشَّيْءُ۔ مہلت
سے کرنا — فِيهِ۔ ہمیشگی
طلب کرنا۔
آدَامَ إِدَامَةً۔ الشَّيْءُ۔ ہمیشہ رکھنا
— الْأَمْرَ۔ مداومت کرنا
آدَامَتِ۔ السَّمَاءُ۔ لگاتار برسنا۔
— الدَّلْوُ۔ ڈول بھرنا۔
— الْقِدْرُ۔ تھوڑا سا سرو
پانی چھڑک کر ہانڈی کا جوش ٹھنڈا
کرنا۔
تَدَاوَمَ۔ انتظار کرنا۔
إِسْتَدَامَ۔ اسْتَدَامَتِ — الشَّيْءُ۔
مہلت دینا۔ فِيهِ۔ ہمیشگی
طلب کرنا۔ الطَّائِثُ۔ پرنہ
کا ہوا میں چکر لگانا — غَرِيْمَةً۔
نرم کرنا۔
الدَّائِمُ۔ فَا۔ اللہ تعالیٰ — مَاءٌ
دَائِمٌ۔ پھرنا ہوا پانی۔
الدَّأَمَاءُ۔ سمندر۔
الدَّوْمُ۔ مص۔ ہمیشہ رہنے والا
کھجور سے مشابہ ایک درخت۔ بڑے
بڑے درخت۔
الدَّوَامُ۔ دوران سر۔
الدَّوْمَانُ۔ پرنہ کا منڈلانا۔
الدَّيْمَةُ۔ جم کر رہنے والی بارش
جس میں بجلی اور گرج نہ ہو۔ ج
دَيْحٌ وَدَيْوْمٌ۔
الدَّوَامَةُ۔ لٹو۔ ج۔ دَوَامٌ۔
الدَّيْوَمُ۔ دائم۔ ہمیشہ۔
الدَّوَامُ وَالْمَدَامَةُ۔ شراب۔
مسلل بارش۔
الْمَدِيْنَةُ۔ جس کی ناک سے خون جاری ہو
الْمَدِيْنَةُ۔ جہاں مسلسل بارش ہو۔

الْمَدْوَمُ وَالْمَدَاوِمُ۔ دَوْنِ يَا
کفگیر جس سے ہانڈی کا جوش بٹھایا
جائے۔
دَانِ يَدُوْنُ دَوْنًا۔ خسیں ہونا۔
کمزور ہونا۔
دَقْنِ۔ الدِّيْوَانُ۔ رجسٹر بنانا۔
— ۵۔ رجسٹر میں نام درج کرنا۔
أَدْيُنَ۔ اذنی ہونا۔ ناچیز ہونا۔ کمزور ہونا۔
تَدَاوَنَ۔ مالدار ہونا۔ رجسٹر میں درج ہونا
دَوْنِ۔ پست۔ نیچے۔ ”هُوَ دَوْنُهُ“
وہ اس سے درجہ میں پست ہے۔
آگے۔ ”مَشَى دَوْنَهُ“ وہ
اس کے آگے چلا — مِنْ
دَوْنِ أَنْ يَفْعَلَ۔ بغیر اس کے کہ
وہ ایسا کرے۔
الدَّوْنُ۔ خسیں۔ حقیر۔ گھٹیا۔
”شَيْءٌ دَوْنٌ“ حقیر گھٹیا چیز۔ کبھی
شریف کے معنی بھی دیتا ہے —
”حَالُ الْقَوْمِ دَوْنُ خُلَاقٍ“
قوم اس کے اور اس کے مطلوب کے
درمیان حائل ہو گئی
دَوْنَكَ۔ اسم فعل بمعنی خذ لے۔ پکڑ
دَوْنَكَ زَيْدًا۔ زید کو پکڑ۔
الدِّيْوَانُ وَالْدِّيْوَانُ۔ کتابوں کا
مجموعہ۔ قصائد و دیگر اقسام نظم کی
کتاب۔ فوجی سپاہیوں کا وظیفہ
نواروں کا رجسٹر — ج۔
دَوَاوِيْنُ وَدَيَاوِيْنُ۔ پچھری
کوئل۔
دَوِيْنُ۔ دَوْنِ کی تصویر۔
حَاكَ دَنَ دَوَّهَا۔ حیران ہونا۔
تَدَاوَعَتِ۔ الشَّيْءُ۔ کسی شے کا متغیر ہونا۔
— الْأَمْرَ۔ کسی کام میں لگ
جانا۔
دَوِّيْ۔ جنگل میں چلنا۔



دَوِّی (س) دَوِّی - بیمار ہونا —
صدرۃ - سینہ میں کینہ رہنا -

دَوِّی (ض) دَوِّیَا - بھینھنا بٹ سنا
دینا -

دَوِّی تَدَوِّیۃً - اللہ بن - دودھ پر
باریک سی جھلی آنا - السحاب -
بادل کا گرجنا - الصوت - آواز
کی گنگناہٹ سنا دینا -

دَوِّی مَدَاوَاۃً - بیمار کا علاج کرنا -
اَدَوِّی اِدَوَاۃً - بیمار کے ساتھ رہنا -
ہ - بیمار کرنا - کہتے ہیں - فلان
یُدَوِّی وید اوی - یعنی فلاں بیمار
کرتا ہے اور علاج کرتا ہے -

تَدَاوٰی - خود اپنا علاج کرنا -
الدَّوٰی - مص - بیمار - احمق - اپنی جگہ
ہمیشہ رہنے والا - اصل میں مصدر ہونے
کی وجہ سے یہ واحد جمع مذکر مؤنث
میں ایک ہی طرح آتا ہے -

الدَّوَاۃُ الدَّوَاۃُ والدَّوَاۃُ - دوا -
ج - اَدَوِّیۃً -

الدَّوَاۃُ دَوَات - ج دَوِّی وِدَوِّی، و
دَوِّی وِدَوِّیَات -

الدَّوَاۃُ بالائی - جھلی - پٹری -

الدَّوِّی - بیمار خراب پیٹ والا - احمق -
اپنی جگہ جم جانے والا -

الدَّوِّی - آواز بعض کے نزدیک خاص
بادل کی گرج - مَا فِی الدَّارِ دَوِّی
وِدَوِّی - گھر میں کوئی نہیں ہے -
مکان دَوِّی - ناموافق صحت جگہ -

دَاثَ یَدِیْثَ دِیْثَا - نرم و آسان ہونا -

دِیْثَ - ذلیل کرنا - دِیْثَ الدَّھُرُ
زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنانا - طریق
مَدِیْثَ - روندنا ہوا راستہ

دَا جَر یَدِیْجَر دِیْجَا دِیْجَا - تھوڑا چلنا
آہستہ چلنا -

دَاخَر (ض) دِیْجَا - ذلیل ہونا -
دِیْجَا - ذلیل کرنا -

الدَّیْدَنُ والدَّیْدَانُ - عادت -

الدَّیْرُ عبادت گزار مرد عورتوں کا مقام -

ج - اَدِیْرۃً وَاَدِیَارُ دِیْرۃً -
نجات کے لیے - دِیْرَکُنِ -

الدَّیَارُ - دیر والا - گھریں رہنے والا -

دَا ص یَدِیْصُ دِیْصَا - ٹیڑھا ہونا -

عَنِ الطَّرِیقِ - راستہ سے ایک طرف

ہونا - دَا صِیْبُ الغَدَاۃِ بَیْنِ

الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ - غدود کا دبانے

سے حرکت کرنا -

دَا ص (ض) دِیْصَا - رٹائی سے بھاگنا کینہ

ہونا -

اِنْدَا ص - ہاتھ سے پھسلنا - بِالْشَّیْءِ

عَلٰی فُلَانٍ - کسی پر اپنا ناک شرو

برائی لانا -

الدَّایِصُ - فا - چور - ج دَا صۃً -

الدَّیَا ص - سخت پٹھوں والا -

الدَّیَا ص - پانی میں غوطہ لگانے کی جگہ -

دَا ق یَدِیْقۃً - دِیْقًا - اکھڑنے کے لیے

ٹیڑھا کرنا -

الدَّیْلُکُ - مُرَغ - ج دِیْلُکُ وَاَدِیَاکُ و

دُیْلَکۃً -

بِیْصۃً الدِیْلُک - یہ اس چیز کے لیے بطور

مثال لاتے ہیں کہ جو ایک ہی بار ہوئی

ہو اور دوبارہ نہ ہو - بڑا مہربان -

موسم بہار -

اَرْضٌ مَدَاکَۃً وَّمَدِیْکۃً - بہت مرغوں

والی زمین -

دِیْکَس - الوجُلُ فِی بَیْتِہ - کسی کا گھر

میں چھپ کر بیٹھنا اور لوگوں کی حاجتوں

کے لیے باہر نہ نکلنا -

دَا نَہ یُدِیْثَ - دِیْثَا - قرض دینا -

صفت فاعلی (دَا نَہ) - صفت

مفعولی (مَدَا یُوْنُ) - الرجل -

قرض لینا - صفت (دَا نَہ) -

فُلَانًا - بدلہ لینا -

دَا نَہ (ض) دِیْثَا - مالک ہونا - غلام بنانا -

نا پسندیدہ بات پر ابھارنا - ذلیل کرنا

حکم دینا - خدمت کرنا - کسی پر احسان

کرنا - ودَا ن الرجل - عزت دار

ہونا - ذلیل ہونا - اطاعت کرنا نافرمانی

کرنا -

دَا ن (ض) دِیْثَا وِدِیَا نَہ و تَدِیْن -

— بِالْمِلْکَةِ الْاِسْلَامِیَّة - دین اسلام

قبول کرنا -

دِیْنَک - مذہب اختیار کرنے دینا - الشَّیْءُ

مالک بنا دینا -

دَا یْنَہ مَدَا یْنَہ - فیصلے کے لیے حاکم کی

طرف لے جانا - ایک دوسرے کو قرض

دینا - ادھار دینا -

اَدَا ن اِدَا نَہ - قرض لینا - ہ - کسی کو

قرض دینا -

تَدِیْن - قرض لینا -

تَدَا یْن - القوم - ایک دوسرے سے قرض

مانگنا - ادھار پر لین دین کرنا -

اِدَا ن اِدِیَا نَا و اِسْتَدَا ن اِسْتَدَا نَہ

قرض لینا — اِدَا ن الشَّیْء - قرض پر

کوئی چیز خریدنا -

الدِّیْن - مص - قرض بمقرر وقت تک ادھار

موت - ج - دِیْلُک وَاَدِیْن -

الدِّیْن - مص - حساب - یَوْمُ الدِّیْن

اسی سے ہے - مَلِیْکَت - قَدَرَت - حکم -

مذہب - مَلِیْکَت - حالت - عادت - سیرت

تدبیر نافرمانی - گناہ - محبوبی - پرہیز

گاری - فرمانبرداری - بدلہ - قہر و غلبہ

ذلت - ج - اَدِیَا ن - کہتے ہیں -

"قَوْمٌ دِیْن" - اطاعت شعار لوگ -

الدِّیَا نَہ - دین داری - ملت و مذہب -



الدَّيْنُ - دین دار۔ دین کا پرستار۔ الدَّيْنَةُ - مؤجل قرض۔ اطاعت۔ عادت کتنے ہیں۔ "يُعْتَقِدُ دَيْنِيَّةً" - یعنی مہلت سے خریدنا۔ الدَّيْنُونَةُ - قضا۔ حساب۔	الدَّيْنُ - قاضی۔ غلبہ والا۔ حاکم۔ حساب لینے والا۔ بدلہ دینے والا۔ الدَّيْنُ - غلام بدلہ دیا ہوا۔ وہ جس سے حسد لیا گیا ہو۔ مؤنث مَدِينَةٌ - کہتے ہیں "يَغْلِبُ مَدِينٌ وَمَدِينَةٌ" - فلاں	کے پاس لوٹتی غلام ہیں۔ الدَّيْنُ - قرض دار۔ الدَّيْنُ - بہت قرض دینے یا لینے والا۔ مذکر و مؤنث کے لیے یکساں آتا ہے۔ جر۔ مَدَّ اَيْنٌ۔
---	--	---

ذ

ذَا - یہ قریب کے لیے اسم اشارہ ہے۔ اس کا تشبیہ حالت رفعی میں "ذَان" ہے اور حالت نصبی و جری میں "ذَيْن" جر۔ اُولَءِ - اور شاہد طریقہ پر اس کی تصغیر ذَيَا آتی ہے۔ اس پر "ہا" تشبیہ زائد کر کے "هَذَا" بولتے ہیں اور جب یہ مَدَّ یا مَنَ - استفہامیہ کے بعد واقع ہو تو الذی کے معنی دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں مَاذَا فَعَلْتَ وَمَنْ ذَا فِي الدَّارِ - اور "ہا" کے ساتھ یہ اسم استفہام ہوتا ہے۔ جیسے "لَمَّا ذَا تَرَكْتَنَا" ذَاكَ - یہ اسم اشارہ متوسط کے لیے ہے۔ ہاء تشبیہ کے ساتھ "هَذَا" اور حالت تصغیر ذَيَاكَ - ہوتا ہے اس کا تشبیہ حالت رفعی میں "ذَانِكَ" اور حالت نصبی و جری میں "ذَيْنِكَ" ہے۔ اور جمع۔ اُولَئِكَ - ذَٰلِكَ - یہ بعید کے لیے اسم اشارہ ہے۔ تشبیہ ذَٰلِكَ جر۔ اُولَئِكَ - تصغیر کی صورت میں ذَيَا لِكَ - کہتے ہیں۔ ذَاب (ف) ذَابَا - الشیء - جمع کرنا۔ الدَّائِمَةُ - جانور ہانکنا۔ ہ خوف دلانا۔ دھتکارنا۔ مذمت کرنا۔ الغَلَامَةُ - لڑکے کی زلفیں بنانا۔ ذَابَتْهُ الرِّيحُ - اس کو چاروں طرف	سے ہوا لگی۔ الرجل - بہت زور سے آواز نکالنا۔ تیز چلنا۔ ذَيْبٌ - بھیڑیے سے ڈرنا۔ گھبرانا۔ بکریوں میں بھیڑیے کا گھس پڑنا۔ ذَيْبٌ (س) ذَابَا وَ ذَيْبٌ (ك) - ذَابَةُ - مکاری اور خباثت میں بھیڑیے کی طرح ہونا۔ بھیڑیے سے خوف زدہ ہونا۔ اذْأَبٌ - بھیڑیے سے خوف زدہ ہونا۔ الْأَسْمَعُ - کسی زمین کا بہت بھیڑیوں والی ہونا۔ (ذَابٌ، الغَلَامَةُ - لڑکے کی زلفیں بنانا۔ ذَابَهُ - ڈرانا۔ تَذَابٌ - شرارت و مکاری میں بھیڑیے کی طرح ہونا۔ الشیء - باری سے لینا۔ تَذَابَتْ وَ تَذَابَتْ الرِّيحُ علیہ - ہوا کا کبھی ادھر سے آنا اور کبھی اُدھر سے آنا۔ تَذَابَتْ وَ تَذَابَتْ الرِّيحُ - کسی پر ہوا کا گھومنا۔ ہوا کا چاروں طرف سے آنا۔ الچَنُّ - جن کا کسی کو ڈرانا۔ تَذَابَتْ وَ تَذَابَتْ - لِلتَّاقَةِ - اونٹنی کو دوسرے بچہ پر مہربان بنانے کے لیے بھیڑیے جیسا بن کر چھپنا۔ اسْتَذَابَ اسْتَذَابَا - بھیڑیے کی طرح ہونا۔	الذَّأْبُ - مص۔ فحش۔ الذَّئِبُ - بھیڑیا۔ دَاعُ الذَّئِبِ - بھوک۔ جر۔ ذئابٌ وَاذْوُوبٌ - وَذُؤَابٌ - ذُؤَابَانُ العَرَبِ - عرب کے چور اور فقیر لوگ۔ الذَّئِبَةُ - بھیڑیے کی مادہ۔ جانوروں کے حلق کی ایک بیماری۔ کجادہ اور زین کے ہر دو جانب کے درمیان کی فراخی۔ الذَّئْبَانُ - اونٹ کی گردن کے بال۔ اور ہونٹ کے بال۔ کاٹنے کے بعد جو اون بچے۔ الذَّؤَابَةُ - پیشانی کے بال۔ بتلوار کا علاقہ ہر شے کا بلند حصہ یا چوٹی۔ اور اسی سے ہے۔ "هُوَ ذُؤَابَةُ قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کا پیشوا ہے۔ وَاَعْلَوْتُ ذُؤَابَةَ الْجَبَلِ - میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا۔ ذُؤَابَةُ الدَّجَلِ - کجادہ کے آخر میں لگی ہوئی کھال۔ ذُؤَابَةُ النَّعْلِ - جوتے کا کٹا ہوا وہ تسمہ جو زمین پر قدم کے نیچے آئے اور دھکی کے وقت کہتے ہیں۔ "لَا قُتْلَنِي فِي ذُؤَابَتِكَ" - جر۔ ذَوَائِبُ - أَرْضٌ مَدَّأَبَةً - ذَبْرْدَس، ذَبْرَا - غضب ناک ہونا۔ عنه۔ ڈرنا۔ گھبرانا۔ نفرت کرنا۔ ناک چڑھانا۔ صفت (ذَبْرْدَا اِسْتِ)
--	---	--

بالشئ - عادی ہونا۔ ٹوگر ہونا۔ دنے
وقائدت علیہ کسی پر جرات کرنا۔
دیری کرنا۔
ذُبُوتٌ وَذَاءُوتٌ هَذَا عِدَّةٌ - الموائع
علیٰ ریحہا عورت کا فرمان ہونا۔
خاوند کی اطاعت سے باہر ہونا۔
صفت (ذَابٌ وَذَائِدٌ وَذَيْرَةٌ وَ
مُذَائِدٌ)
أَذَادَ - غضبناک کرنا ناراض کرنا۔
جرات دلانا۔ اکسانا۔ ۵
کذا - مضطرب و مجبور کرنا۔ ۵
بصاحبه - ورغلانا۔
ذَاطَه (ذ) ذَاطَا - ذبح کرنا۔ ایسا گلا
گھونٹنا کہ زبان باہر نکل پڑے۔
الاناء - برتن بھرنا۔ الاناء
برتن کا بھر جانا۔
ذَاف (ذ) ذَافَانَا - مرجانا۔
ذَافٌ عَلَى الْاسِيرِ - وَذَافُهُ
ذ) ذَافَا ذَافَا ذَافَا -
فوراً مار ڈالنا۔
لِذَافٍ - دل کا کٹ جانا اور مرجانا۔
مَوْتُ (ذَافٍ) اچانک موت۔
سَمَرُ (ذَافٍ) زہر قاتل۔
الذَّافَانُ - موت۔ الذَّافَانُ وَ
الذُّوْقَانُ وَالذَّيْقَانُ وَالذَّيْقَانُ
زہر قاتل۔
ذَال (ذ) ذَالَا ذَالَا - آہستہ
آہستہ ناز سے چلنا۔
تَذَا - ذیل بننا۔ چھوٹا بننا۔
ذُولُکَ - بیٹریے کا علم جنس۔ ذُولَانُ
وَذُلَانُ۔
الذُّلَانُ وَالذُّلَانُ - بیٹریا۔ گیدڑ
المذَّالُ - سبک و تیز رو۔
ذَامَةٌ (ذ) ذَامَا - عیب لگانا۔ رسوائی
کرنا۔ حقارت کرنا۔ دھتکارنا۔

أَذَامَةٌ إِذَا أَمَّا - علی کذا۔ مجبور کرنا۔
الذَّامُ وَالذَّامُ - عیب۔ ضرب المثل ہے
”قَدْ لَا تَعْدُمُ الْحَسَنَاءُ ذَامًا“
کبھی خوبصورت عورت بھی عیب سے
پاک نہیں ہوتی۔ مَا سَمِعْتُ لَهُ
ذَامَةً - میں نے اس سے ایک کلمہ
نہیں سنا۔
ذَب (ذ) ذَبَا - عنه - دفع کرنا۔ حاشیہ
کرنا۔ مکھی اڑانا۔
ذَب (ذ) ذَبَا وَذَبَا وَذُبُوبًا - گرمی
یا پیاس سے خشک ہونا۔ جَسْمُهُ
لَا غَرْدَنَ ہونا۔ الذب - پودہ
کا مڑ جانا۔
ذَب - البعيرُ او الرجلُ - اونٹ یا
آدمی کا مجنون ہونا۔ الفرسُ
گھوڑے کے نتھنے میں مکھی کا گھس جانا۔ صفت
(مَذْبُوبٌ)
ذَبَبَ تَذْبِيْبًا - بہت دفع کرنا۔
شَفَقَتُهُ - ہونٹوں کا پیاس وغیرہ کی وجہ
سے خشک ہونا۔ النھاؤ - دن کا
تھوڑا باقی رہنا۔
أَذَبَ - المکان - کسی جگہ کا بہت مکھیوں
والی ہونا۔ صفت (مَذْبُوبٌ وَ
مُذِبٌ)
الذَّب - مص - بہت حرکت کرنے والا
جنگلی بیل۔
الاذب - لمبا۔ جنگلی بیل۔ اونٹ کی کچی۔
الذَّبَابُ - مکھی۔ ج۔ اَذْبَةٌ وَذَبَانٌ
وَذُبٌّ - بھڑ۔ شہد کی مکھی۔ مچھر۔
واحد ذبابہ۔ ذَبَابُ السَّيْفِ -
تلوار کی دھار۔ ذَبَابُ الْعَيْنِ -
آنکھ کی پٹی۔ کہتے ہیں ”هُوَ أَعْوَدُ
مِنْ ذَبَابِ الْعَيْنِ“ وہ آنکھ کی پٹی
سے زیادہ عزیز ہے۔ الذَّبَابُ
جنون۔ طاعون تپ دق۔ بد قسمتی۔

ہمیشہ رہنے والی بیماری۔ ذَبَابَةٌ
الشئ - چیز کا بقیہ۔ عَطَشٌ مُذْبِتٌ
سخت پیاس و بھنی۔
الذَّبَابُ وَالمُذْبِتُ - اپنے اہل اور قوم
کی حمایت کرنے والا۔
الذَّبَانُ - پیاس سے مڑ جانا ہوا۔
الذَّبَانُ - مورچہ۔ چھوڑی۔ ج۔
مَذَابَاتٌ وَمَذَابٌ - کہتے ہیں۔
”أَذْنَابُهُمَا مَذَابُهُمَا“ یعنی جانوروں
کی دُمیں ان کی چھوڑیاں ہیں۔
ارضٌ دُذْبُوبَةٌ وَمَذْبُوبَةٌ - بہت
مکھیوں والی زمین۔
رَاكِبٌ (مُذْبِتٌ) تنہا جلد باز سوار۔
ذَبَحَهُ (ذ) ذَبَحَا وَذَبَاخًا - پھاڑنا۔
ذبح کرنا۔ گلا گھونٹنا۔ الذَّق
مٹکے میں سوراخ کرنا۔
ذَبَحَ - القوم - ذبح کرنے میں مبالغہ کرنا۔
إِذْبَحَ - ذبح چننا۔ ذبح کے لیے جانور لینا۔
تَذَابَحُوا - ایک دوسرے کو ذبح کرنا۔
الذَّبْحُ - ذبح شدہ۔ مقتول۔
الذَّبْحُ - سانپ کی پھتری کی ایک قسم۔
الذَّبْحُ - فا - داغ لگانے کا آلہ جس سے
گردن کے عرض میں داغ لگائیں۔
الذَّبَاخُ وَالذَّبَاخُ وَالذَّبَاخُ وَ
الذَّبْحَةُ وَالذَّبْحَةُ وَالذَّبْحَةُ
وَالذَّبْحَةُ - طق کا درد۔
الذَّبِيحُ - ذبح کیا ہوا۔ جس پر قربانی ہو
سکتی ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ
والسلام کا لقب۔
الذَّبِيحَةُ - الذَّبِيحُ کا مونث۔ ذبح
کرنے کا جانور۔ ج۔ ذَبَائِحُ۔
المذَّبَحُ - ذبح کرنے کا اوزار۔
المذَّبَحُ - ذبح کرنے کی جگہ۔ ج۔ مَذَابِغُ
— وَ مَذَابِغُ الْكَنَائِسِ - گرجا
کی قربان گاہ۔

ذَبَذَبَ - الشَّيْءُ الْمَعْتَقُ فِي السَّوَاءِ
ہوا میں لٹکی ہوئی چیز کا ہلنا۔ حرکت
کرنا۔ الرجلُ کسی کا مترود، و
حیران ہونا۔ ذَبَذِيْةٌ کسی کو
مترود و حیران چھوڑنا۔ ذَبَذَبَ
أَهْلَهُ۔ اپنے اہل کی حمایت کرنا۔
الْمَخْلُقُ - مخلوق کو ایذا دینا۔
الشَّيْءُ - حرکت دینا۔
تَذَبَذَبَ - حرکت کرنا۔ ہلنا۔
الذَّبَذِيَّةُ - زبان۔ ہوا میں حرکت
کرنے والی چیز۔ وہ چیز جو پاکی کی
زینت کے لیے لٹکائی جائے۔ ج
ذَبَاذَبَ -
الذَّبَاذِبُ - لباس یا پاکی کا سبب۔
یا پھندنا۔
الْمَذَبَذُ بٌ - پس و پیش کرنے والا۔
ذَبَرْدَنُ (من) ذَبَرًا - الكتاب کتاب
لکھنا۔ نقطے لگانا۔ جلدی پڑھنا۔
الشَّيْءُ - جاننا۔ اچھی طرح سمجھنا۔
ذَبَرْدَنُ (من) ذَبَرًا وَ ذَبَارَةً - اچھی طرح
دیکھنا۔ الخَبَرُ - خبر جاننا۔ سمجھنا۔
- الشَّيْءُ - شعر پڑھنا۔
ذَبَرْدَنُ (من) ذَبَرًا - عليه غصہ ہونا۔
ذَبَرًا - الكتاب کتاب لکھنا۔ نقطے لگانا۔
جلدی جلدی پڑھنا۔
الذَّبَرُ - مع کتاب۔ ج ذَبَارٌ۔
الْمَذَبَرُ - قلم۔
ذَبَلْ وَ ذَبُلْ - دن (ن)، ذُبُولًا وَ ذَبَلًا
- النبات - پودے کا مرجھانا۔
الْفَرْسُ - گھوڑے کا لاغر ہونا۔
لِسَانُهُ أَوْ شَفَتُهُ - زبان یا ہونٹ کا
خشک ہونا۔ کہتے ہیں: ذَبَلَتْهُ ذُبُولٌ
اس کو مصیبت پہنچی۔
أَذْبَلَ - النبات أو الفرس - پودے کو
پشمرود یا گھوڑے کو لاغر کرنا۔

تَذَبَّلَ - فِي الْمَشْيِ - مثک کر چلنا۔ ناز
سے چلنا۔
الذَّبَلُ - کچھوے کی پیٹھ کی ہڈی۔ آغاز
جوانی۔
الذَّبَلُ - گمشدگی۔ پسر۔
الذَّبَلَةُ - بیگنی۔
الذَّبَلَةُ - پیاس کی وجہ سے ہونٹوں کی
خشکی۔
الذَّبَلُ - فا۔ باریک۔ ڈبلا۔ ج۔ ذُبُلٌ وَ
ذُبُلٌ۔
الذَّبَلَةُ - مؤنث۔ الذَّبَلُ - عَيْنٌ
ذَابَلَةٌ - نیم باز آنکھ۔ مستان آنکھ
ج۔ ذَوَابِلُ - الذَوَابِلُ - رماح
(نیزوں) کی صفت بھی بن کر آتا ہے۔
کہتے ہیں: الرِّمَاحُ الذَّوَابِلُ
باریک نیزے۔ نفس نیزوں کو بھی
ذَوَابِلُ کہتے ہیں۔
الذَّبَالَةُ وَ الذَّبَالَةُ - بٹی۔ ج۔ ذُبَالٌ۔
ذَبَرْدَنُ (من) ذَبَرًا - سفر سے واپس آنا۔
الماء - پانی پینا۔
ذَجَلَهُ (من) ذَجَلًا - ظلم کرنا۔
ذَحَّه (من) ذَحًا - تھپڑ مارنا۔
الْحَطَبُ - لکڑی پھاڑنا۔ الْفِلْفُلُ
مرچ کوٹنا۔
ذَحَجَهُ (من) ذَحَجًا - بھیلنا۔ حرکت دینا
- ذَحَجَتُهُ الرِّيحُ - ہوا کا
کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے
جانا۔ المرأة بُولَكَاها عَوَتْ
کا بچہ جتنا۔
ذَحَذَحَ - چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر تیز
چلنا۔ الرِّيحُ التَّوَابُ - ہوا کا
مٹی اڑانا۔
الزَّحَلُ - خون کا بدلہ۔ عداوت۔ کینہ۔ ج
ذُحُولٌ وَ أَذْحَالٌ - کہا جاتا ہے۔
"لِي عَنْهُمْ ذُحُولٌ"۔

ذَحَى (من) ذَحِيًّا - الصُّوف - اون
دھنا۔ کوٹنا۔ الرِّيحُ القَوْمُ -
قوم کو کھلی ہوا لگنا۔
الْمَذْحَاةُ - وہ زمین جس پر درخت نہ ہوں
ج۔ مَذَاخِرُ -
ذَخَرْدَنُ (من) ذَخَرًا - ضرورت کے وقت
کے لیے ذخیرہ کرنا۔
أَذْخَرُوا ذَخْرًا - ذخیرہ کرنا۔
الذُّخْرُ - ذَخْرًا کا اسم۔ وہ شے جس کا
ذخیرہ کیا جائے۔ ج۔ أَذْخَارٌ۔
الذَّاخِرُ - موطا۔
الذَّاخِرَةُ - ج۔ ذَخَائِرُ - ذخیرہ۔ خزانہ
کہتے ہیں: أَعْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ
ذَخَائِرُ عِنْدَ اللَّهِ - "مومنین کے
اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس ذخیرہ ہیں۔
الذَّاخِرُ - سبز گھاس۔ ایک قسم کی خوشبودار
گھاس۔ واحد۔ (الذَّاخِرَةُ) ج
أَذَاخِرُ -
الْمَذْخَرُ - ذخیرہ کرنے کی جگہ۔ ج۔ مَذَاخِرُ
الْمَذَاخِرُ - جوف۔ رگیں۔ انٹریاں پیٹ
کے نیچے حصے۔
ذَسَرْدَنُ (من) ذَسَرًا - الْمِلْحَ - نمک چھڑکانا۔
- الْحَبُّ فِي الْأَرْضِ - زمین میں
دانہ بونا۔ الأرض النبات -
زمین کا نبات اگانا۔ (من) ذَسَرًا وَ
ذُسُورًا الْقُرْنُ وَالنَّبَاتُ سَبَكٌ
یا سبزہ کا پھوٹنا۔ الشمس - آفتاب
کا طلوع ہونا۔ اللحم - گوشت
کا سُکھنا۔
ذَسَرْدَنُ (من) ذَسَرًا وَ ذُسُورًا - الرجل -
سر کے اگلے حصہ کا سفید ہونا۔
الذَّسَرُ - چھوٹی جیونٹیاں۔ کرک۔ ہوا
میں منتشر ہونا۔
ذَسَرَاتٌ - واحد (ذَسَرَاتٌ) نسل۔
الذُّسُورُ - آنکھ یا زخم میں چھڑکنے کی دوا۔



ذَرْبُ دَن، ذَرْبًا وَذَرْبٌ وَآذَرْبٌ۔
 — السيفُ۔ تلوار کو تیز کرنا۔
 — آذَرْبُ الرجلُ کسی کا تنگ گذارہ والا ہونا۔
 الذَرْبُ۔ زبان کی خرابی۔ لاعلاج بیماری زنگ۔ ج۔ آذْرَابٌ۔
 الذَرْبُ۔ جگر کی ایک بیماری۔ گردن کا غُدود۔
 — رجلٌ ذَرْبٌ۔ زبان دراز آدمی۔
 الذَرْبُ۔ مچھ کی راہی۔ ج۔ ذَرْبٌ۔
 لِسَانٌ ذَرْبٌ۔ فصیح و فحش گو زبان۔
 الذَرْبَةُ۔ غُدود۔ تیز دہ زبان عورت۔ ج۔ ذَرْبٌ۔
 الذَرْبُ۔ زہر۔
 الذَرْبِيُّ۔ عیب۔
 الذَرْبِيُّ۔ مصیبت۔
 الذَرْبِيُّ۔ آذربائیجان کی طرف خلاف قیاس نسبت۔
 المَذْرَبُ۔ زبان۔
 ذَرْحُ دَن، ذَرْحًا وَذَرْحٌ۔ الشَّيْءُ فی الريح۔ ہوا میں اڑانا۔
 الطَّعَانُ۔ کھانے میں ذرا ح نامی کپڑا ملا کر اس کو زہر ملا کرنا۔
 ذَرْحُ اللَّبَنِ۔ دودھ میں پانی ملانا۔
 — الزَّعْفَرَانُ فی المَاءِ۔ پانی میں زعفران ملانا۔
 الذَّرَّاحُ وَالذَّرْوُحُ وَالذَّرِيحُ وَالذَّرَّاحُ وَالذَّرْوُحُ وَالذَّرِيحُ وَالذَّرْوُحُ وَالذَّرِيحَةُ الذَّرْحُ وَالذَّرْوُحُ۔ ایک قسم کا زہریلا پروار کیڑا۔
 الذَّرَّاحُ۔ پانی ملا ہوا دودھ۔
 الذَّرِيحَةُ۔ ٹیلہ۔ ج۔ ذَرْيَحٌ۔
 لَبَنٌ أَوْ عَسَلٌ مَذْرَحٌ۔ جس دودھ یا شہد میں پانی زیادہ ہو۔

ذَرْبُ دَن، ذَرْبًا وَذَرْبٌ وَآذَرْبٌ۔
 — السيفُ۔ تلوار کو تیز کرنا۔
 — آذَرْبُ الرجلُ کسی کا تنگ گذارہ والا ہونا۔
 الذَرْبُ۔ زبان کی خرابی۔ لاعلاج بیماری زنگ۔ ج۔ آذْرَابٌ۔
 الذَرْبُ۔ جگر کی ایک بیماری۔ گردن کا غُدود۔
 — رجلٌ ذَرْبٌ۔ زبان دراز آدمی۔
 الذَرْبُ۔ مچھ کی راہی۔ ج۔ ذَرْبٌ۔
 لِسَانٌ ذَرْبٌ۔ فصیح و فحش گو زبان۔
 الذَرْبَةُ۔ غُدود۔ تیز دہ زبان عورت۔ ج۔ ذَرْبٌ۔
 الذَرْبُ۔ زہر۔
 الذَرْبِيُّ۔ عیب۔
 الذَرْبِيُّ۔ مصیبت۔
 الذَرْبِيُّ۔ آذربائیجان کی طرف خلاف قیاس نسبت۔
 المَذْرَبُ۔ زبان۔
 ذَرْحُ دَن، ذَرْحًا وَذَرْحٌ۔ الشَّيْءُ فی الريح۔ ہوا میں اڑانا۔
 الطَّعَانُ۔ کھانے میں ذرا ح نامی کپڑا ملا کر اس کو زہر ملا کرنا۔
 ذَرْحُ اللَّبَنِ۔ دودھ میں پانی ملانا۔
 — الزَّعْفَرَانُ فی المَاءِ۔ پانی میں زعفران ملانا۔
 الذَّرَّاحُ وَالذَّرْوُحُ وَالذَّرِيحُ وَالذَّرَّاحُ وَالذَّرْوُحُ وَالذَّرِيحُ وَالذَّرْوُحُ وَالذَّرِيحَةُ الذَّرْحُ وَالذَّرْوُحُ۔ ایک قسم کا زہریلا پروار کیڑا۔
 الذَّرَّاحُ۔ پانی ملا ہوا دودھ۔
 الذَّرِيحَةُ۔ ٹیلہ۔ ج۔ ذَرْيَحٌ۔
 لَبَنٌ أَوْ عَسَلٌ مَذْرَحٌ۔ جس دودھ یا شہد میں پانی زیادہ ہو۔

ذَرْبُ دَن، ذَرْبًا وَذَرْبٌ وَآذَرْبٌ۔
 — السيفُ۔ تلوار کو تیز کرنا۔
 — آذَرْبُ الرجلُ کسی کا تنگ گذارہ والا ہونا۔
 الذَرْبُ۔ زبان کی خرابی۔ لاعلاج بیماری زنگ۔ ج۔ آذْرَابٌ۔
 الذَرْبُ۔ جگر کی ایک بیماری۔ گردن کا غُدود۔
 — رجلٌ ذَرْبٌ۔ زبان دراز آدمی۔
 الذَرْبُ۔ مچھ کی راہی۔ ج۔ ذَرْبٌ۔
 لِسَانٌ ذَرْبٌ۔ فصیح و فحش گو زبان۔
 الذَرْبَةُ۔ غُدود۔ تیز دہ زبان عورت۔ ج۔ ذَرْبٌ۔
 الذَرْبُ۔ زہر۔
 الذَرْبِيُّ۔ عیب۔
 الذَرْبِيُّ۔ مصیبت۔
 الذَرْبِيُّ۔ آذربائیجان کی طرف خلاف قیاس نسبت۔
 المَذْرَبُ۔ زبان۔
 ذَرْحُ دَن، ذَرْحًا وَذَرْحٌ۔ الشَّيْءُ فی الريح۔ ہوا میں اڑانا۔
 الطَّعَانُ۔ کھانے میں ذرا ح نامی کپڑا ملا کر اس کو زہر ملا کرنا۔
 ذَرْحُ اللَّبَنِ۔ دودھ میں پانی ملانا۔
 — الزَّعْفَرَانُ فی المَاءِ۔ پانی میں زعفران ملانا۔
 الذَّرَّاحُ وَالذَّرْوُحُ وَالذَّرِيحُ وَالذَّرَّاحُ وَالذَّرْوُحُ وَالذَّرِيحُ وَالذَّرْوُحُ وَالذَّرِيحَةُ الذَّرْحُ وَالذَّرْوُحُ۔ ایک قسم کا زہریلا پروار کیڑا۔
 الذَّرَّاحُ۔ پانی ملا ہوا دودھ۔
 الذَّرِيحَةُ۔ ٹیلہ۔ ج۔ ذَرْيَحٌ۔
 لَبَنٌ أَوْ عَسَلٌ مَذْرَحٌ۔ جس دودھ یا شہد میں پانی زیادہ ہو۔



مِنْ بَرْدِ الشِّمَالِ بِصُحْرَةٍ
یعنی اس نے شمالی ہوا کی سردی سے
چٹان کی پناہ لی۔

اسْتَذَرِي - بہ - پناہ لینا - بالشجر
درخت کا سایہ لینا۔

الذَّرِي - گھر کا صحن اور اس کے اطراف۔
پناہ اور ہر وہ شے جس میں چھپا جاسکے
”اتَّخَذْتُ الْحَائِطَ ذَرِي لِي“ میں
نے دیوار کی پناہ لی۔ ”وانا فی ذَرِي
فِلَانٍ“ میں فلان کی پناہ میں ہوں
”هُوَ كَرِيمُ الذَّرِي“ وہ کریم الطبع
ہے۔ جاری آنسو۔

الذَّرِي - وہ غلہ جس کا دوسا دن کیا جائے۔
الذَّرَاوَةُ - ہوا میں اڑ کر گرا ہوا بھوسہ۔

ہوا میں اڑی ہوئی چیز۔
الذَّرَوَةُ وَالذَّرَوَةُ - چوٹی۔ اپنی جگہ

ہر چیز کا بلند حصہ۔ جہ ذَرِي وَذَرِي -
الذَّرَوَةُ - بڑھاپا۔

الذَّرَةُ - مٹی۔ غلہ کی ایک قسم۔
الْمَذَرِي وَالْمَذَرَاةُ - جیلی جس سے

گیہوں وغیرہ کھولتے ہیں۔ ج۔
مَذَارٍ -

الْمَذَرَوَان - سر کے دونوں پہلو۔ کمان
کے دونوں سرے۔ دونوں سرینوں کے

ہر دو طرف۔ کہتے ہیں ”جَاءَ يَنْقُصُ
مَذَرَوِيهِ“ یعنی وہ دھمکی دیتا

ہوا آیا۔
تَذَعَّبْتَهُ - الجحش جن کا کسی کو خوفزدہ کرنا۔

انْذَعَبَ - الماء - پانی کا برابر بہتا رہنا۔
الذَّعْبَانُ - جوان بھڑیا۔

ذَعَبَهُ دَف - ذَعَجًا - زور سے دھکیلتا
الذَّعَاءُ - فرقے۔ واحد (ذَعَاعَةٌ)

ذَعَذَمَ - الشَّيْءَ - پرانہ کرنا۔ بکھیرنا۔
ذَعَذَعْتُهُ - الثَّوَابِتُ - اس کو

مصببتوں نے جھڑا دیا۔ الیسر۔

أَوِ الْخَبَرِ - بھید یا خبر کو پھیلانا۔ فاش
کرنا۔ الویج الشَّجْوِ - ہوا کا

درخت کو زور سے ہلا دینا۔
تَذَعَذَمَ - بکھیرنا۔ پھیلنا۔

الذَّعْذَامُ - چغل خور۔ وہ شخص جو بھید
کو نہ چھپائے۔

ذَعَاذِعَ - النخل - ردی کھجور۔
تَعَزَّوْا ذَعَاذِعَ - وہ لوگ ادھر

ادھر بچھڑ گئے۔
ذَعَوَهُ دَف - ذَعَا - ڈرانا۔ خوف زدہ کرنا۔

ذُعُو - ڈر جانا۔ صفت (مَذْعُوٌّ)
ذَعِرَ دَس - ذَعَوًا - حیران ہونا۔ دہشت

زدہ ہونا۔
أَذَعَرَهُ - خوفزدہ کرنا۔

تَذَعَرُ - خوفزدہ ہونا۔
انْذَعَرُ - ڈرنا۔ گھبرانا۔

الذُّعْرُ - خوف دُور - اَمْرٌ ذُعْرٌ -
خوفناک معاملہ۔

الذَّاعِرُ - فاش کرنے والا بھیت۔ رجلٌ
ذَاعِرٌ ذُعْرَةٌ وَذُعْرَةٌ (اپنے

اندر عیوب کھنے والا آدمی۔ بُسْرِن۔ دُبر۔
الذُّعْرَةُ - ایک چھوٹا سا پرندہ جو اپنی

دُم بہت زیادہ ہلاتا رہتا ہے۔
سَنَةٌ ذُعْرِيَّةٌ - سخت سال۔

الذُّعْرُ - خوف زدہ۔ تہمت اور بدکلامی
سے ڈرنے والی عورت۔

نَاقَةٌ مَذْعَرَةٌ - دیوانی اونٹنی۔
ذَعَطَهُ دَف - ذَعَطًا - تیزی سے ذرع کرنا

اچانک مارنا۔ مَوْتُ ذَاعِطٌ
وَذَعُوْطٌ - جلد آنے والی موت۔

ذَعَفَهُ دَف - ذَعْفًا - زہر پلانا۔
الطَّعَامُ - کھانے میں زہر ڈالنا۔

ذَعِفَ دَس - ذَعْفَانًا - مرنا۔
أَذَعَفَهُ - اچانک مار دینا۔ جلدی مار دینا

انْذَعَفَ - دل کا کٹنا۔ ٹوٹنا۔ سانس

پھولنا۔

الذَّعْفُ وَالذُّعْفُ - فوراً مار ڈالنے

والا زہر - حَبَّةُ ذَعْفُ اللَّعَابِ
وہ زہریلا سانپ جس کا زہر فوراً مار

ڈالے۔
ذَعَفَهُ دَف - ذَعْفًا - چلانا۔ چیخنا۔

ڈرانا - ذَاعُ ذَعْفًا - مملک

بیماری۔
ذَعِنَ دَس - ذَعْنًا وَآذَعَنَ - لہ۔

تابع و مطیع ہونا - آذَعَنَ بِالْحَقِّ
حق کا اقرار کرنا۔

الْمَذْعَانُ - آسانی سے فرماں بردار ہونے

والا۔
ذَعَتَ دَف - ذَعَا وَذَعَا - عَلٰی

الجَرِيحِ - زخمی کو مار ڈالنا - فی

الامر - کسی امر میں جلد بازی سے

کام لینا - ذَعَا - الطَّاعُونَ
فُلَانًا - ہلاک کر دینا۔

ذَعَفَ وَذَعَا وَآذَعَتَ - الجَرِيحِ
وَذَعَتَ - علیہ ولہ - زخمی کو

مار ڈالنا - وَذَعَفَ جَهَانًا
دَاحِلِيَّتِهِ - سواری کے بوجھ کو ہلکا

کرنا۔
ذَعَتَ دَف - ذَعْفًا - وَاسْتَدَعَتَ -

اسْتَدَعَا - الامر - تیار ہونا۔
ممكن ہونا۔

الذَّف - بھڑاسا پانی۔
الذَّفَات - مص - ذَفَ عَلٰی الْجَرِيحِ

کا اسم بھڑی چیز د - والذَّفَات
زہر قاتل بھڑی پانی۔ جہ ذَعَفَ و

أَذَعَفَ -
الذَّفِيفُ وَالْمَذْفَفُ - ہلکا تیز رو۔

ذَفَرَسَ - ذَفَرًا - الشَّيْءَ - بُوَاڑنا۔

خواہ خوشبو ہو یا بدبو۔ عام طور پر بدبو

کے لیے مستعمل ہے۔ صفت (ذَفَرٌ)



وَأَذَقْنِ مُؤْنْتَ - ذَفْرَةً وَذَفْوَاهُ
 — النَّبْتُ - سبزی کا زیادہ ہونا۔
 اسْتَذَقُوا - بالامیر - پکا ارادہ کرنا۔
 الذَّفْوَةُ الذَّفْرَةُ - بوکی تیزی - بدبو۔
 الذَّفْرَةُ - ایک قسم کی گھاس۔
 الذَّفْرِيُّ - کان کے پیچھے کی بڑی - جر
 ذَفْرِيَّاتٌ وَذَفْرَانِي وَذَفْرَايَ -
 الذَّفْرَانُ - ایک بدبو دار پودا۔
 ذَفْرَتُهُ دَن - ذَفْنًا - ٹھوڑی پر مارنا۔
 — وَذَقْنِ عَلَى يَدِهِ - آؤ
 عَصَاهُ - اپنے ہاتھ یا لاشی پر ٹھوڑی
 لگانا۔
 ذَاقْتَهُ مَذَاقَةً - تنگ کرنا۔
 الذَّقْنُ وَالذَّقْنُ بَطْوَی - جر۔ آذَقَانُ
 الذَّقْنُ - بہت بوڑھا۔
 الذَّاقَتَهُ - حلقوم کے کنارے پر کا ابھرا
 ہوا حصہ - طَبْوَارِ
 الْأَذَقْنُ لَمْ يَطْوَی وَالْأَذَقْنُ ذَفْدَاءُ
 جر۔ ذَقْنُ
 ذَكْرُونِ ذَكْرًا وَتَذَكَّرًا - اللہ
 اللہ تعالیٰ کی پاکی و بزرگی بیان کرنا۔
 — الشَّيْءُ - یاد کرنا۔
 يَفْلَانِ حَدِيثًا - ذکر کرنا۔
 الْأَمْرُ - اچھی طرح سمجھنا۔ اسْمَ
 اللَّهِ - اللہ کا نام لینا۔ حَقِّ
 فُلَانٍ - کسی کے حق کی حفاظت کرنا۔
 اور اس کو ضائع نہ کرنا۔
 ذَكَّرَ - الْكَلِمَةَ - کلمہ کو نہ کرلانا۔
 ذَكَّرَهُ الشَّيْءَ وَذَكَّرَهُ بِهِ - یاد
 دلانا۔ الْقَوْمَ - وعظ کرنا۔
 أَذَكَّرَهُ - الشَّيْءَ - یاد دلانا۔
 الْمَرْأَةُ عَمَرَتْ كَأَوَّلَادِ نَرِيذِ بَنِيهَا -
 صفت - (مُذَكِّرٌ)۔
 ذَاكِرَةٌ مُذَكِّرَةٌ - فی امیر - کسی بات
 پر گفتگو کرنا۔

تَذَكَّرَ - الشَّيْءَ - یاد کرنا۔
 تَذَكَّرُوا - فی الامیر - کسی معاملہ پر
 بات چیت کرنا۔
 إِذْكَرُوا إِذْكَرُوا إِذْكَرُوا - الشَّيْءَ -
 یاد کرنا۔
 اسْتَذَكَّرَ - الشَّيْءَ - پڑھنا۔ یاد کرنا۔
 اسْتَذَكَّرُوا السَّوْجِلَ - کسی کی انگلی
 پر ڈور باندھنا تاکہ اس کو کوئی بات یاد
 آجائے۔
 الذِّكْرُ - مص - شہرت رکھنے والے
 ذِكْرٌ فِي النَّاسِ - اس کی لوگوں میں
 شہرت ہے۔ تَعْرِيفٌ - شرف - نماز
 و دعاء۔ وَالذِّكْرُ مِنَ الرِّجَالِ
 مضبوط و بہادر آدمی۔ مِنَ الْقَوْلِ
 مضبوط پختہ بات۔ مِنَ الْمَطَرِ -
 موسلا دھار بارش۔ ذِكْرُ
 الْمَيِّتِ - مرنے والے کا نام لوگوں کی
 زبان پر جاری رہنا۔ ذِكْرُ
 الْحَقِّ - چک۔ جر۔ ذِكْرٌ
 الذِّكْرُ - یادداشت۔
 الذِّكْرُ وَالذِّكْرُ وَالذِّكْرُ - و
 الذِّكْرُ - بہت یاد کرنے والا۔
 اچھے حافظہ والا عمدہ یادداشت والا۔
 — وَالذِّكْرُ مِنَ الْحَدِيدِ
 اچھا سخت ہونا۔ رَجُلٌ ذِكْرٌ
 خود دار آدمی۔
 مردوں سے مشابہت رکھنے والی عورت
 الذِّكْرَةُ - یاد۔
 الذِّكْرُ - مرد۔ مِنَ الْحَدِيدِ -
 اچھا عمدہ ہونا۔ مِنَ النَّحَاسِ -
 وہ سخت تانبہ جو کوٹا نہ جاسکے۔
 سَيْفٌ ذِكْرٌ - وہ تلوار جس کی
 دھار عمدہ لوہے کی اور پشت گھٹیا
 لوہے کی ہو۔ مَطَرٌ ذِكْرٌ -
 سخت بارش۔ الذِّكْرُ مِنَ

الْمَخْلُ - وہ کھجور جو پھل نہ لائے۔
 جر۔ ذِكْرٌ - وَذِكْرَةٌ وَذِكْرَانُ
 وَذِكَارٌ وَذِكَاةٌ وَذِكْوَةٌ -
 ذِكْوٌ - الْبَقْلُ - وہ ترکاریاں جو سخت
 اور تلخ ذائقہ ہو گئی ہوں۔ اس کی ضد
 أَحْوَاسٌ ہے۔
 الذِّكْوَى - یاد دہانی۔ ذِکْرَانِی یا قَلْبِی -
 الذِّكْرَةُ - شہرت۔ کھڑکی کے سرے پر
 لگا ہوا فولاد کا ٹکڑا۔ ذِكْرَةٌ
 السَّيْفِ - تلوار کی دھار۔
 الذِّكْرَةُ - ذَاكِرٌ کا مؤنث۔ قوت
 حافظہ۔
 الذِّكْرَةُ - وہ چیز جس سے حاجت یاد
 آجائے۔ عِنْدَ الْمُؤَلَّدِينَ
 سُرِیْقِیْطِ - پاسپورٹ ٹکٹ۔ جر
 تَذَاكِرُ -
 الذِّكْرَةُ - مردی۔
 الْمَذَكِرُ - لڑکے جننے والی عورت۔
 یَوْمُ مَذَكِرٍ - سخت ہولناک دن۔
 طَبِیْقٌ مَذَكِرٌ - خوفناک راستہ۔
 دَاهِيَةٌ مَذَكِرَةٌ - سخت مصیبت۔
 الْمَذَكِرُ - نر۔ سَيْفٌ بُرَانِ - خوفناک
 راستہ۔ ہولناک دن۔
 الْمَذَكِرَةُ وَالْمَذَكِرَةُ - مرد کے
 مشابہ عورت۔
 الْمَذَكِرُ - لڑکے جننے والی عورت۔
 ذَكَّتْ تَذَكُّوْذُكُوْا وَذَكَا وَذَكَاةٌ - و
 اسْتَذَكَّتْ - النَّارُ - آگ کا
 شدت سے بھڑک پڑنا۔ الشَّمْسُ
 سورج کی تمازت کا تیز ہو جانا۔
 الْحَوْبُ - لڑائی کا تیز و شدید ہو
 جانا۔
 ذَكِّي يَذْكِي وَذَكِّي يَذْكِي وَذَكْوِي يَذْكُو
 ذَكَاةٌ - تیز فہم ہونا۔ صفت۔ ذَكِّي
 مؤنث۔ ذَكِيَّةٌ - جر۔ آذَكِيَاءُ -

کھائی کھو ڈکا وڈکا۔ الذیجۃ
جانور کو ذبح کرنا۔ (دکھا)
المسک۔ مشک کی خوشبو مکننا۔
صفت۔ (دکھی)

دکھی۔ النار۔ آگ جلانا۔ الحوب
جنگ کا آگ بھڑکانا۔ الذیجۃ
ذبح کرنا۔ الرجل۔ سن
رسیدہ ہونا اور بدن میں بھاری پڑنا۔
آدھی۔ النار۔ آگ جلانا۔ الحرب
جنگ کی آگ بھڑکانا۔ آدھی
علیہ العیون۔ اس نے اس پر
جاسوس بھیجے۔

استدکی۔ استدکا۔ النار۔ آگ
بھڑکانا۔ آگ کا بھڑکنا۔ جلنا۔
الدکا۔ ذہن کی تیزی۔ تیز فہمی۔
الدکا۔ سورج کے لیے اسم علم ہے۔
ابن دکا۔ صبح۔
الدکوة والدکیۃ۔ ایندھن۔ آگ
سلگانے والی چیز۔

الدکا۔ مص۔ دہکتا ہوا انگارہ۔
والدکاۃ۔ ذبح۔

المذکی والمذکیۃ۔ بہت بارش
برساتے والا بادل۔ المذکی
من الخیل۔ وہ گھوڑا جو عمر میں بھی پورا
ہو اور طاقت میں بھی کامل۔ ج
المذاکی والمذکیات۔

ذل (دھ) ذلا و ذلۃ و ذلالۃ و
مدۃ۔ ذلیل ہونا۔ خوار و رسوا
ہونا۔ صفت (ذلیل و ذلال)
ج۔ آذلاء و آذلۃ و ذلال۔
(د) ذلا و ذلا۔ البعیر۔
اونٹ کا جلد رام ہونا۔ صفت (ذلول)
ج۔ آذلۃ و ذلول۔ کہتے ہیں۔
"ذکلت لہ القواہی" اس پر قافیوں
کی آمد ہوئی۔

ذلۃ و آذلۃ و استدۃ۔ ذلیل
کرنا۔ آذلۃ و استدۃ۔
ذلیل پانا۔ و آذل الذجل
سزاوار ذلت ہونا۔ ساتھیوں کا ذلیل
ہونا۔

ذلیل۔ الکوم۔ انگوڑے خوشے لٹکائے
گئے یا برابر کیے گئے۔ النخل۔
درخت خرما کے خوشوں کو کھڑی پر رکھا۔
تذلل۔ کہ۔ عاجزی اور فروتنی کرنا۔

الذل۔ مص۔ رحمت۔ نرمی۔ ج۔
آذلال۔ کہتے ہیں "دعہ علی
آذلالہ" اس کو اپنی حالت پر چھوڑو
جاء علی آذلالہ۔ وہ
وہ اپنے طریقہ پر آیا۔ امور
اللہ جاریہ آذلالہا و علی
آذلالہا۔ اللہ تعالیٰ کے امور حسب
مواقع جاری ہیں۔ آذلال
التائیں۔ سب سے آخری لوگ۔
سب سے ادنیٰ لوگ۔

الذل۔ مص۔ تابع داری۔ سہولت
نرمی۔ تواضع۔ کہتے ہیں "ذل ذلیل"
ذلیل کرنے والا یا بری ذلت۔

الذلولی۔ نرم و خوش اخلاق۔ طریق
مدلل۔ بہت چلتا ہوا راستہ۔
شجۃ مدللۃ۔ وہ درخت جس
کو ہر شخص پاسکے۔

ذلخ (دھ) ذلخا۔ ہونٹ پھٹنا۔
صفت (آذلخ)۔ الطعام
کھانا کھانا۔

ذلیعت (دھ) ذلیعا۔ شفتہ۔ ہونٹ
الٹنا۔ صفت (آذلخ)
تذلل۔ الشی۔ ڈھیلا اور مضرب
ہونا۔

الذل والذلۃ۔ کپڑے کا دامن
ج۔ ذلا ذل۔ کہتے ہیں "مشمور"

ذلا ذلک۔ دامن اٹھا۔

ذلیع (دھ) ذلیعا۔ اللہ۔ ناک
چھوٹی اور ہموار ہونا۔
الذلیع۔ چھوٹی اور ہموار ناک والا۔ مونث۔
ذلعا۔ ج۔ ذلیع۔

ذل (دھ) ذلقا و ذلق۔ الطائر
پرندہ کا بیٹ کرنا۔ ذلق اللسان
زبان کا فصیح و تیز ہونا۔ (د) و ذلق
و ذلق۔ السکین۔ چھری
تیز کرنا۔ ذلقہ و آذلقہ و
ذلقہ۔ کمزور اور دبا کرنا۔
ذل اللسان۔ گوہ کو نکالنے کے لیے
اس کے سوراخ میں پانی ڈالنا۔

ذل (دھ) ذلقا۔ السیف۔
اللسان۔ تھوڑا زبان کا تیز ہونا۔
السراج۔ چراغ کا روشن
ہونا۔ الرجل۔ آدمی کا بے آرام
ہونا۔ من العطش۔ پیاس سے
قریب المرگ ہونا۔

ذل (دھ) ذلقۃ۔ اللسان۔ زبان
کا فصیح ہونا۔
الذل۔ تیز زبان ہونا۔

الذل۔ مص۔ ذلق الشیء و
ذلقۃ۔ کسی شے کی تیزی۔ ذلق
اللسان۔ زبان کا کنارہ۔ ذلق
السفر۔ تیر کا باریک حصہ۔

الذل والذل والذل والذل
والذل والذلیق۔ من
اللسان۔ تیز زبان یا بھالا۔
لسان ذلق طلق و ذلق طلق
و ذلق طلق۔ تیز زبان فصیح و بلیغ۔
الذولی۔ من کل شیء۔ دھار۔ نوک۔ تیزی
الاحرف الذلیقیۃ۔ وہ حروف

جن کا مخرج نوک زبان ہو۔
الذل۔ تیز کنارہ والا۔ پانی ملا دودھ۔

تیز و شدید ہونا۔ الرجل بالحصیر کسی کا گرمی سے گھبرا اٹھنا۔
ذَمِي (دس) ذَمًا وَ ذَمَاءً ہلنا۔

ذَمِي (من) ذَمَاءً۔ بیماری کا مزمن ہونا قریب الموت ہونا۔ بدبودینا۔

(ذَمِيًّا)۔ جلدی کرنا۔
ذَمَّتْهُ الرِّيحُ تَذْمِيَةً ذَمِيًّا، تنکلیت دینا۔

أَذْنِي إِذْ ذَمَاءً۔ اس قدر مارنا کہ موت کے قریب ہو جائے۔

إِسْتَذْنِي۔ مَا عِنْدَكَ۔ پیچھے ہٹ کر سب کچھ لے لینا۔

الذَّمِي۔ بدبو۔

الذَّمَاءُ۔ رن جیات۔ کہتے ہیں: هُوَ

أَطْوَلُ ذَمَاءٍ مِنَ الصَّبِّ۔ وہ

سوسار سے بھی زیادہ سخت جان

ہے۔ کیونکہ اس کی روح بہت دیریں

نکلتی ہے۔

ذَن دَمْنٍ، ذَرِينَا وَ ذَنْنَا۔ المَخَاطُ۔

ناک سے رطوبت بہنا۔ کہا جاتا ہے

”أَنَّهُ كَيَذَنُّ“ وہ بڑھا پے یا

بیماری سے کمزور ہے۔

ذَن دَس، ذَنْنَا وَ ذَنَّن۔ ناک کی

رطوبت بہنے والا ہونا۔

ذَن دَمْنٍ، ذَرِينَا۔ البُودُ۔ سروی کا

سخت ہونا۔

الذَّنُّ۔ مَعِي۔ گندگی۔

الْأَذَنُ۔ وہ شخص جس کے ناک سے

ریٹ بہتی ہو۔ مَوْنُ۔ ذَنَاءُ۔

ج۔ ذَن۔ مثل ہے ”أَنْفُكَ مِنْكَ

وَإِنْ كَانَ أَذَنُ“ اس کے ساتھ اس

شخص سے خطاب کیا جاتا ہے جو اپنی

قوم کے ضعیفوں سے بیزار ہو۔

الذَّنَانُ وَ الذَّنِينُ۔ ناک کی ریش

رینٹ۔

الذَّنَانَةُ۔ حاجت۔ چیز کا بقیہ۔ کمزور۔

ذَنَبَهُ (من) ذَنْبًا۔ کسی کا پیچھا کر کے

اس کے نشانات قدم کو نہ چھوڑنا۔

کھوج لگانا۔

ذَنَبَ۔ الْعِمَامَةُ۔ عمامہ کا شملہ چھوڑنا

الکتاب۔ کتاب کے ساتھ اس

کا تتمہ شامل کرنا۔ الضَّبَّ

گوہ کو دم سے پکڑنا۔ الجَوَادُ

ٹڈی کا لڑے دینے کے لیے زمین

میں دھنستا۔ الضَّبُّ۔ سوسار کا

اپنے سوار خرسے دم باہر نکالنا۔ اور

سر اندر رکھنا۔

أَذْنَبَ۔ الرجلُ۔ گناہ کا مرتکب ہونا۔

تَذَنَّبَ۔ علیہ۔ کسی پر ظلم و زیادتی کرنا۔

جرم کی نسبت کرنا۔ الرجلُ

پکڑی کا شملہ لٹکانا۔ الطَّبِيقُ

راستہ پکڑنا۔

تَذَنَّبَ۔ السَّحَابُ۔ بادلوں کا آگے

پہنچے چلنا۔

اسْتَذَنَّبَ۔ کسی کا پیچھا کرنا۔ کسی کو مجرم

پانا یا سمجھنا۔ الامرُ۔ کام کا

پورا ہونا۔

الذَّنْبُ۔ گناہ۔ قصور۔ جرم۔ ج۔

ذَنُوبٌ۔ وجہ۔ ذُنُوبَاتٌ۔

الذَّنْبُ۔ مِنَ الْحَيَوَانِ۔ دُم۔ ج

أَذْنَابٌ۔ أَذْنَابُ النَّاسِ۔

گھٹیا۔ نیچے طبقہ کے لوگ۔

ذَنَبُ الْعَقْرَبِ۔ بچھو کا ڈنک۔

ذَنَبُ السَّوْطِ۔ کوڑے کا سرا۔

کہتے ہیں۔ ”حَرَبٌ بِذَنَبِهِ“ وہ رو

پڑا۔ ”وَكَيْبُ ذَنَبِ الْبَعِيرِ“ وہ

اپنے ناقص حصہ پر راضی رہا۔

”وَكَيْبُ ذَنَبِ الرِّيحِ“ وہ ایسی

سبقت لے گیا کہ کوئی اس کو نہ پاسکا۔

وَبَنِي دَبِينَهُ ذَنَبُ الضَّبِّ۔

میرے اور اس کے درمیان عداوت ہے۔

الذَّنَابُ۔ وہ رسی جس سے اونٹ کی دُم

باندھی جائے۔ چیز کا پچھلا حصہ۔ ج

ذَنَابٌ۔

الذَّنَابَةُ۔ قرابت (د)۔ وَ الذَّنَابَةُ

وَ الذَّنَابَةُ۔ مِنَ الْوَادِي۔

وادی کا سرا۔

الذَّنْبَةُ۔ دُم۔ ذَنَابَاتُ النَّاسِ د

ذَنَابَاتُهُمْ۔ گھٹیا درجہ کے لوگ۔

الذَّنَابِيُّ۔ پرندہ کی دُم۔

الذَّنُوبُ۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ لمبی اور گھنے

بالوں کی دم والا گھوڑا۔ ذَنَابٌ

وَ ذَنَابٌ وَ أَذْنَبَةُ۔ قبر۔ دُنبہ کی

چکتی کا گوشت

الذَّنْبِيُّ وَ الذَّنْبِيُّ۔ دم۔

الذَّنْبُ۔ لمبی دم۔ تنگ نالہ یا ندی۔

سَأَلَتِ الْمَذْنَابُ۔ نالے بہہ پڑے۔

الْمَذْنَبَةُ۔ بچھو۔

الْمَذْنَبُ۔ دم دار۔ اور نَجْمٌ مَذْنَبٌ۔

اسی سے ہے۔ یعنی دُم دار ستارہ۔

الْمَذْنَابُ۔ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْخَيْلِ۔

سب سے پیچھے چلنے والا اونٹ یا

گھوڑا۔

ذَهَبٌ دَفٌّ، ذَهَابًا وَ ذُهُوبًا۔ وَ

مَذْهَبًا۔ چلنا۔ گزرنا۔ مرجانا۔

الامرُ۔ ختم ہونا۔ عَلَى

الشَّيْءِ۔ بھول جانا۔ بھلے

جانا اور اسی سے ہے ”ذَهَبْتُ

بِهَ الْخَيْلَ“ یعنی اس کے تکرے

اس کو رتبہ سے گرا دیا۔ فِي

الْمُسْئَلَةِ إِلَى الْكَذِبِ۔ اس مسئلہ میں

اس کی یہ رائے قرار پائی۔



ذَہِبٌ دس: ذَہَبًا۔ سونے کی کان میں بہت سا سونا پا کر حیران ہونا۔
 اَذْهَبَ وَذَہَبَ — الشئُ۔ کسی چیز سونے کا پانی چسڑھانا۔ صفت مفعولی۔ (ذَہِيبٌ وَمُذْہَبٌ وَ مُذْہَبٌ،
 اَذْہَبَہُ وَ اَذْہَبَ۔ لے جانا۔
 الذَّہَبُ۔ مص۔ سونا رکھی ٹونٹ بھی آتا ہے۔ ج۔ اَذْہَابٌ وَ ذُہُوبٌ وَ ذُہُبَانٌ۔ ایک ٹکڑا۔ (ذَہِيبَةٌ) انڈے کی زردی۔ ج۔ ذَہَابٌ وَ اَذْہَابٌ وَ جج اَذْہِبُ۔
 الذَّہِبَةُ۔ بکلی پازور کی بارش۔ ج۔ ذَہَابٌ وَ اَذْہَابٌ۔ وجج اَذْہِيبُ۔
 الذَّہُوبُ۔ جانے والا۔
 المَذْہَبُ۔ اعتقاد۔ طریقہ اصل۔ اسلام کے مشہور مذاہب چار ہیں حنفی شافعی حنبلی، مالکی۔
 المَذْہَبَاتُ۔ جاہلیت کے سات قصیدے جو تعلقات کے بعد دوسرے درجہ میں شمار ہوتے ہیں۔
 ذَہْرٌ دس: ذَہْرًا۔ فُوہُ۔ کالے دانتوں والا ہونا۔ صفت۔ (اَذْہَرُ)
 ذَہْلٌ دس: ذَہْلًا وَ ذُہُولًا۔ الشئُ وعنه۔ بھول جانا۔ غافل ہونا۔
 ذَہْلٌ دس: ذُہُولًا۔ حیران ہونا۔ بگا رہنا۔
 اَذْہَلَّہُ۔ بھلا دینا۔ غافل کر دینا۔
 الذَّہْلُ وَ الذَّہْلُ۔ من اللیل۔
 مات کا ایک حصہ۔
 المَذْہَلُ بھولنے کی جگہ۔ ج۔ مَذْہِلٌ وَ الذَّہْلُ۔ من الخیل آو الرجال۔ عمدہ گھوڑا۔ اچھا آدمی۔ ج۔ ذَہَالِیلُ۔

ذَہْنٌ دس: ذَہْنًا۔ الامر۔ کسی امر کو سمجھنا۔ تیزی ذہن میں کسی پر غالب رہنا۔ (وَأَذْہَنُ وَ اسْتَذْہَنُ) الرجل عَنِ الامر۔ کسی کو کوئی کام بھلا دینا۔ فراموش کرانا۔
 ذَہْنٌ دس: ذَہْنًا۔ الشئُ۔ سمجھنا۔
 ذَہْنٌ دس: ذَہَانًا۔ اچھے حافظ والا ہونا۔
 ذَہْنٌ۔ کند ذہن ہونا۔
 ذَہْنٌ۔ سمجھ میں دوسرے سے بڑھ جانا۔
 الذَّہْنُ۔ سمجھ۔ عقل قوت۔ حافظہ چربی۔ قوت۔ اور اسی سے ہے۔ مَا بِرَجُلٍ ذَہْنٌ۔ میرے پاؤں میں چلنے کی قوت نہیں ہے۔ ج۔ اَذْہَانُ۔
 الذَّہْنُ۔ سمجھ۔ زیر کی۔ ج۔ اَذْہَانُ رجلٌ۔ (ذَہْنٌ وَ ذَہْنٌ) ذکی و سمجھ دار آدمی۔
 ذَہَارٌ دس: ذُہُوًا۔ بکبر کرنا۔
 ذُو۔ صاحب۔ مالک۔ اس کا اعراب اسمائے ستہ مکبرہ کا سا ہے۔ اس کا تشبیہ۔ ذَوَانٌ اور جمع۔ ذَوُونٌ ہے کہتے ہیں۔ (وَجَدْتُهُ ذَا صَبَاحٍ) میں نے اس کو بوقت صبح پایا۔ (وَجَاءَ مِنْ ذِي نَفْسٍ) وہ مطلع ہو کر آیا۔ فقہاء کا قول ہے۔ (ذُو الْيَدِ أَحَقُّ) یعنی قبضہ کرنے والا زیادہ حق رکھتا ہے۔ (وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ ذِي قَبْلٍ) اور یہ گزشتہ زمانہ میں تھا۔ (ذُو الْأَمْرِ حَامِدٌ) رشتہ دار۔ (الذَّوْنُ وَالْأَذْوَاءُ) شاہانِ مین۔ ان کے ناموں کا آغاز لفظ "ذُو" سے ہوتا ہے۔ مثلاً ذَوِيْنٌ، ذُوْلُوْاس، ذُوْدِیْاش وغیرہ۔

ذَاتٌ۔ مَوْنٌ۔ ذُو۔ تشبیہ۔ ذَوَاتَانِ۔ ج۔ ذَوَاتٌ۔ اس کا اور اس کے تشبیہ و جمع کا اعراب انھیں کے مشابہ مفرد و تشبیہ و جمع اسماء کا سا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں۔ (لَقِيتُہُ ذَاتَ یَوْمٍ) او ذَاتَ مَسْرَعةً۔ یعنی میں نے اس سے ایک دن یا ایک رات یا ایک مرتبہ ملاقات کی۔ (وَكَانَ ذَلِكَ ذَاتَ الْعُجْبِ) یہ گزشتہ سال تھا۔ (وَجَلَسَ ذَاتَ الْیَمِینِ) وہ سیدھی جانب بیٹھا۔ (وَلَقِيتُہُ اَذَلَّ ذَاتَ یَدَیْنِ) میں سب سے پہلے اس سے ملا۔ (ذَاتُ الصَّدْرِ) فکریا بھید و راز۔ (ذَاتُ الْیَمِینِ) سیدھی جانب۔ (ذَاتُ الْبَیْنِ) حال۔ کہتے ہیں۔ (أَصْلَحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ) تم اپنی آپس کی حالت کو درست کرو۔ (ذَاتُ شَفِیْقَةٍ) کلمہ۔ کہا جاتا ہے۔ (کَلِمَتُهُ فَمَا رَدَّ عَلَیْ ذَاتَ شَفِیْقَةٍ) میں نے اس سے گفتگو کی۔ تو اس نے جواب میں ایک کلمہ تک نہیں نکالا۔ (ذَاتُ الْیَدِ) ملکیت کہتے ہیں۔ (قَلْبٌ ذَاتُ یَدٍ) اس کی ملکیت عورتی رہ گئی۔ کہتے ہیں۔ (الْقَصِصُ الذَّجَاجَةُ ذَاتُ بَطْنِهَا) مرغی نے انڈا دیا۔ یا بیٹ کی۔ (ذَاتُ الْجَنْبِ) اطباء کے نزدیک نمونیا کی بیماری۔ (ذَاتُ التَّوْبَةِ) ذاتُ الصَّدْرِ ذاتُ الْکَبِدِ۔ بیماریوں کے نام ہیں۔
 الذَّاتُ۔ وہ چیز جو جانی جملے کا یا اس کی خبر دی جا سکے۔ جو ہر ہستی، نفس، ہر شے۔
 الذَّاتِیُّ۔ ذات کی طرف منسوب۔

ذَاب (ن) ذُوبًا وَذُوبًا — الشجر
او السمک — برف یا گلی کا پگھلنا۔
— دَمَحَهُ — آنسو بہنا۔
الشمس — سورج کی گرمی کا تیز ہونا۔
— الرجل — عقل مند ہو کر بے عقل
ہونا۔ ہمیشہ شدہ کھانا۔ کہتے ہیں۔
”ذَاب لی علیہ حق“ میرا حق
اس پر ثابت و واجب ہوا۔ و
مَا ذَابَ فِیْ یَدَیْ مِنْهُ خَيْرًا
مجھے اس سے ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا۔
وَذَابَ جَسْمُ الرَّجُلِ — آدمی لاغر
وہ بلا ہو گیا۔

ذُوبَ — السمک — گلی پگھلنا۔
الغلام — لڑکے کے گیسو بنانا۔
آذَابَ إِذَا بَتَّ — السمک — گلی پگھلنا
— حَاجَتَهُ — اپنی ضرورت پوری
کرنا۔ القوم امرهم۔ قوم
نے اپنے امر کی اصلاح کی۔ علی
العدو۔ دشمن پر لوٹ ڈالنا۔
اسْتَذَابَهُ — پگھلانے کی درخواست
کرنا۔ الشیء — باقی رکھنا۔
حَاجَتَهُ — اپنی حاجت پوری کرنا۔

الذَّابُّ — عیب۔
الذُّوبُ — خالص شہد۔ ذُوبُ الذَّهَبِ
سونے کا پانی۔ پگھلا ہوا سونا۔ لھذا
الکلامُ ذُوبُ الرُّوحِ — یہ کلام
روح پگھلانے والا ہے۔
الذُّوبَةُ — ذاب کا اسم مرہ۔ کہتے ہیں
ظَهَرَتْ مِنْهُ ذُّوبَةٌ — یعنی
اس سے حماقت ظاہر ہوئی۔ مال کا
بچا ہوا حصہ۔

نَاقَةُ ذُؤُوبٍ — موٹی اونٹنی۔
الْإِذْوَابُ وَالْإِذْوَابَةُ — پگھلا ہوا مکھن
کہا جاتا ہے ”هُوَ أَعْلَى مِنَ الذُّوبِ
بِالْإِذْوَابَةِ“ — یعنی وہ مکھن ملے خالص

شہد سے زیادہ شیریں ہے۔
الْمَذُوبُ — کٹھالی۔
الْمَذُوبَةُ — چمچ۔
ذَاجِر (ن) ذُوجًا — حلبی کرنا۔
الماء — پانی پینا۔
ذَاحِر (ن) ذُوحًا — تندی سے چلنا۔
(— وَذُوحًا) — الابل — اونٹوں
کو متفرق کرنا۔

ذَادَهُ (ن) ذُودًا وَذِيَادًا — دفع کرنا
دھتکارنا۔ ”ذَا ذَا لَیْلَ عَنِ
الماء“ اس نے اونٹوں کو پانی پر
سے بکال دیا۔ (— وَذُودًا) عَنِ
حَسْبِهِ — اپنے حسب کی حفاظت
وحمایت کرنا۔ صفت (ذَائِدٌ)
ج۔ ذُودٌ وَذُودًا وَذَادَةٌ —
آذَادَهُ إِذَا ذَاذَهُ وَأَذُودَهُ إِذَا ذَاذًا
دفع کرتے پر کسی کی مدد کرنا۔
الذُّوَادُ — بہت دفع کرنے والا۔
الْمَذَادُ — چراگاہ۔

الْمَذُودُ — جانوروں کا تھان۔ جس سے
کوئی چیز بٹائی جائے بیل کا سینک
زبان۔

ذَاطَهُ (ن) ذُوطًا — ایسا کلا گھونٹنا کہ
زبان باہر نکل آئے۔ الْإِنَاءُ
برتن بھرنا۔
ذُوطَرَسَ (ن) ذُوطًا — چھوٹی ٹھوڑی والا
ہونا۔ صفت (أَذُوطٌ)
الذُّوْطَةُ — زرد پیٹھ والی مکڑی۔ ج۔
أَذُوطًا۔

الذُّوْطُ — ادنیٰ درجہ کے لوگ۔
ذَاعَ (ن) ذُوعًا — مَالَهُ — مال و دولت
کو بالکل ضائع کر دینا۔
آذَاعَ إِذَا عَظَّ — القوم ہما فی
الحوض — قوم کا حوض کے سارے
پانی کو چٹ کر جانا۔ الرجل

بمَالِهِ — اپنا مال لے جانا۔
ذَاقَ (ن) ذُوقًا وَذَوَاقًا وَمَذَاقًا —
— الشیء — کسی شے کو چکھنا۔
العذاب — عذاب بھگتنا۔
الرجل — وما عند الرجل — کسی
کو آزمانا۔ جانچنا۔
أَذَاقَهُ إِذَا قَلَّ — چکھنا۔
تَذَوَّقَ — الشیء — تھوڑا تھوڑا چکھنا۔
تَذَاقَ — القوم الشیء — چکھنا۔
تَذَاقُوا الرِّمَاحَ — انھوں نے
نیزوں کو سنبھالا۔

اسْتَذَاقَهُ — آزمانا۔ تجربہ کرنا۔
لَهُ الْأَمْرُ — بآسانی دستیاب ہونا۔
الذُّوقُ وَالذَّائِقَةُ — قوت ذائقہ۔
الذُّوقُ وَالذُّوَقُ — طبیعت۔ کہتے
ہیں ”هُوَ حَسَنُ الذُّوقِ لِلشَّيْءِ“
اس نے شے کے لیے اچھی طبیعت پائی
ہے۔ الذُّوَقُ — مزہ۔
الْمَذَاقُ — مزہ۔

ذُؤَى (مض) وَذُؤَى (س) ذُؤِيًّا —
— النِّبَاتُ — پودہ کا مرجھانا۔
سوکھنا۔

أَذُؤَى إِذَا ذَاءَ — مرجھا دینا۔
الذُّؤَى — بکری کے چھوٹے بچے۔
الذُّؤَاةُ — ترپوز، انگور وغیرہ جیسی
اشیاء کا چھلکا۔
ذُؤَى وَهْذَى — مؤنث قریب کے لیے
اشارہ ہے۔

ذُؤِيَّتٌ ذُؤِيَّتٌ أَوْ ذُؤِيَّتٌ وَذُؤِيَّتٌ — بات
یا کام کی طرف اشارہ ہے بمعنی ایسا
ایسا یا اس طرح اور اس طرح۔
کہتے ہیں ”قُلْتُ لَهُ ذُؤِيَّتٌ ذُؤِيَّتٌ“
میں نے اس سے ایسا ایسا کیا۔
”فَعَلْتُ ذُؤِيَّتٌ ذُؤِيَّتٌ“ میں نے
ایسا ایسا کیا۔

<p>بہت کلام کرنا۔ الجاریہ۔ رطکی کا دامن گھسیٹتے ہوئے ناز سے چلنا۔ الفوس فی استینانہ۔ گھوڑے کا دوڑنے میں خوشی سے دم ہلانا۔ تَدَايِلُ۔ خاکساری کرنا۔ الذَّيْلُ۔ چیز کا آخر۔ ذیل الثَّغْبِ۔ کپڑے کا دامن۔ ذیل البرقع۔ ریت پر ہوا کے نفخات۔ ذیل القدرس۔ گھوڑے کی دم۔ ج۔ اَذْيَالٌ وَذِيُولٌ وَآذْيَلٌ۔ اَذْيَالُ النَّاسِ وَذِيُولُ سَهْمٍ۔ ادنیٰ درجہ کے لوگ۔ الذَّائِلُ۔ خا۔ وامن والا۔ دُرْعٌ ذَائِلٌ أَوْ ذَائِلَةٌ۔ راز دامن والی زرہ۔ کہتے ہیں۔ "طَالَ ذَيْلُهُ" وہ خوشحال و مالدار ہو گیا۔ الذَّيَالُ۔ لمبے دامن والا۔ الْمَدَّالَةُ۔ باندی۔ لونڈی۔ مثل ہے "هُوَ أَجْمَلُ مِنْ مَدَّالِيَةٍ" وہ باندی سے زیادہ متکبر ہے۔ اَرْضٌ مَتَدَّيْلَةٌ۔ وہ زمین جس پر لمبی سی بارش ہوئی ہو۔ الْمَدَّيَالُ۔ لمبے دامن والا مذکر و مؤنث دونوں کے لیے۔ ذَاهِدٌ (من) ذِيْمًا وَذَامًا۔ عیب لگانا۔ مَدَّ کرنا۔ صفت (مَدَّيْمٌ وَهَدَّيْمٌ) الذَّامُ وَالذَّيْمُ۔ عیب۔ مذمت۔ نقص۔ برائی۔ الذَّيْنُ۔ عیب۔</p>	<p>انفشار کرنے والا اور اسباب کو کھولنے والا ہے۔ الذَّيْفَانُ وَالذَّيْفَانُ وَالذَّيْفَانُ سم قاتل۔ ذَالٌ (من) ذَيْلًا۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے کا لمبا ہونا۔ الطَّائِرُ۔ پرندہ کا اپنی دم کو کھینچنا یا پھیلانا۔ النَّاظِلُ بِذَنْبِهَا۔ ادنیٰ کا اپنی دم کو اپنی رانوں پر پھیلانا۔ الجَارِيَةُ رطکی کا دامن گھسیٹتے ہوئے ناز و انداز سے چلنا۔ الشَّيْءُ۔ ادنیٰ ہونا۔ حالہ۔ پست و فروتر ہونا۔ فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ۔ گستاخی کرنا۔ الذَّيْلُ۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے کو لمبا کرنا۔ المکتتاب۔ کتاب کے آخر میں کچھ لکھنا۔ أَذَالُ إِذَا لَمْ تَذَيْلَ إِذْيَالًا۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے کا دامن والا ہونا۔ الرَّجُلُ تَوْبَةً۔ کپڑے کا دامن بنانا۔ دامن کو دراز کرنا۔ مَالُهُ مال خرچ کرنا۔ کسی کی حقارت کرنا۔ قَرَسَهُ أَوْ غَلَا مَدَّهُ۔ گھوڑے یا غلام کی دیکھ بھال نہ رکھ کر اس کو لاغر و دلا کر دینا۔ الْمَرْأَةُ قَنَاعَةً۔ عورت کا برقع کو ٹکانا۔ الْمَدَمَعُ آنسو ہانا۔ تَدَّيْلٌ۔ فی الکلام۔ بغیر جھکنے کے</p>	<p>ذَا جَرَضٍ ذَيْجًا۔ الماء۔ پانی پینا۔ ذَايَجَهُ مَذَّأَيْجَةً۔ مل کر پینا۔ ذَيْخَةٌ۔ النخلة۔ کھجور میں قلم نہ لگنا۔ گابھانہ لگنا۔ أَذْأَخٌ إِذَا خَلَّتْ۔ بالمكان کسی جگہ کے آس پاس گھومنا۔ ارد گرد چکر لگانا۔ بنی فلان۔ ذیل کرنا۔ الذَّيْحُ۔ دیر بھڑیا۔ زیادہ بالوں والا نر۔ مَوْنُثٌ ذَيْخَةٌ۔ عمدہ گھوڑا۔ تکبر۔ ایک سرخ رنگ کا ستارہ۔ ج۔ اَذْيَاخٌ وَذِيُوخٌ وَذَيْخَةٌ۔ ذَارَهُ يَذَارُهُ ذَيْرًا۔ ناپسند کرنا۔ الذَّيْرَةُ۔ مٹی ملا ہوا گوبر۔ ذَا عَدَضٍ ذَيْعًا وَذِيُوْعًا وَذَيْوَعَةً وَذَيْعَانًا۔ الخَبَرُ۔ خبر وغیرہ کا پھیلنا۔ کہتے ہیں "ذَا عَدَضٍ فِي جِلْدِهِ" الخَبَرُ "اس کی جلد میں کھجلی سب طرف سرایت کر گئی۔ اَذَا عَدَا عَةً۔ الخَبَرُ وَبِالْخَبَرِ۔ خبر پھیلنا۔ شہرت دینا۔ اِسْتَرَدَّهَا لِسِيْرَةٍ۔ راز ظاہر کرنا۔ القومُ مَا فِي الْحَوْضِ وَهَمَافِيْهِ۔ قوم کا حوض کے بارے پانی کو پی جانا۔ بالشَّيْءِ۔ لے جانا۔ اِنْدَا عَ۔ الخَبَرُ۔ خبر کا پھیل جانا۔ اِلْمَدِّيَا عَ۔ وہ شخص جو اپنے راز کو نہ چھپا ج۔ مَدَّ اِيْمَ۔ کہتے ہیں۔ فلانٌ لِلْاَسْرَاءِ مَدِّيَا عَ وَلِلْاَسْبَابِ مَضِيَا عَ۔ فلاں شخص رازوں کو</p>
--	---	--

رَأَيْتُ الارضَ۔ سبزی کاٹنے کے بعد زمین کا سرسبز ہونا۔

المشغی۔ جمع کر کے نرمی سے باندھنا۔ بَيْنَهُمْ۔ صلح کرانا۔

رَأَيْتُ دَفَّ رَأْبًا۔ الصَّدْعُ۔ ترطخ کی مرمت کرنا۔ اصلاح کرنا۔

رَبُّی الْقَوْمِ۔ وہ کھیا آدمی جس کی رائے پر سب متفق ہوں۔ هُوَ اَزْ اٰیْیَ بَکْذَا۔ وہ اس کے لائق ہے۔ الْمِرْآةُ۔ آئینہ۔ ج۔ مَرَاءٌ وَمَرَايَا۔ اس سے فعل بھی بناتے ہیں، کہتے ہیں "يَتَمَرَّءُ اٰی" وہ آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔

الْمِرْآئِ وَالْمِرْآةُ۔ منظر، کہتے ہیں۔ "هُوَ مَرَّءٌ اَوْ بَکْذَا" وہ اس کے لائق ہے۔ "وَيُخْبِرُ عَنْ فَعْمُولِهِ" مَرَّءٌ یعنی اس کا ظاہر اس کے باطن کی ترجمانی کرتا ہے۔ "وَهُوَ مِیّ مَرَّءٍ وَهَسَمِعٌ" و ہَسَمِعٌ یعنی وہ ایسی جگہ ہے کہ میں اس کو دیکھ بھی سکتا ہوں اور اس کی بات سن بھی سکتا ہوں۔

رَبِّ (ن، رُبًّا)۔ القومہ۔ قوم پر برتری حاصل کر کے اس پر سیاست رانی کرنا۔ النعمۃ۔ زیادہ کرنا۔ الشئ۔ جمع کرنا، مالک ہونا۔ الامر۔ کسی کام کو درست کرنا، اس کی اصلاح کرنا۔ الدھن۔ تیل کو عمدہ اور خوشبودار بنانا۔ بالمکان۔ کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ رُبًّا وَرُبًّا)۔ الیق۔ مشک پر کھجور کا شیرہ ملنا تاکہ اس کی بو بھی بہتر ہو جائے اور کھی وغیرہ رکھا رکھا اس میں خراب نہ ہو۔ رُبًّا وَرُبًّا تَرْبِیًّا وَتَرْبِیًّا وَرُبًّا اُرْتَبَا، الولد۔ لڑکے کو بالغ ہونے تک پالنا۔ وَرَبِّ الدھن۔ تیل کو خوشبودار، اور بڑھیا بنانا۔

اَبَتْ۔ بالمکان۔ کسی جگہ اقامت

کرنا۔ ہنہ۔ قریب ہونا۔ ہمیشہ رہنا۔ کہا جاتا ہے۔ "اَسَرَبْتَ السحابة"۔ مسلسل بادل برسا۔ تَرْبَبَ۔ القومہ۔ جمع ہونا۔ الصبی۔ بچہ کو جوان ہونے تک پالنا کہتے ہیں "رَأَيْتُکَ یَتَرْبَّبُ اَرْضُکُمْ" میں نے دیکھا اردو تھا کہ

زمین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا۔ رُبَّبَ الْعَنْبُ۔ انگور کا پانی پکایا گیا۔ الرُبُّ۔ مص۔ مالک، سردار، اسراج۔ کندہ ج۔ اَرْبَابٌ وَرُبُوبٌ۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک، نسبت لے لیے (رَبِّیْ وَرَبَّانِیْ وَرَبُّوْنِیْ) رَبَّانِیْ۔ اللہ والا، عارف باللہ بڑا عالم۔

الرَّبَّةُ۔ مؤنث۔ الرُبُّ۔ عورت کی شکل کی مورتی، جیسے لات کی مورتی بڑا گھر۔

الرَّبَّةُ۔ بڑا گروہ۔ ایک قسم کا درخت ج۔ اَرْبَکَ وَرَبَابٌ۔ الرُبُّ۔ پھلوں کے رس کو پکا کر کاڑھا کیا ہوا شیردہ۔ ج۔ رَبَابٌ وَرَبُوبٌ۔

رُبٌّ وَرُبَّةٌ وَرُبَّمَا وَرُبَّمَا۔ حرف جر ہے۔ سیاق کلام کے موافق تکثیر و تقبیل یعنی اکثر اور کبھی کبھی کا فائدہ دیتا ہے۔ فکرہ پر داخل ہوتا ہے اور زائد کے حکم میں ہوتا ہے۔ لہذا اس کا تعلق کسی سے نہ ہوگا جیسے رُبٌّ جَہْلٌ رَفَعَ اور جب اس پر ما کا فہ داخل ہو جائے تو اس کا دخول فعل اور معرفہ پر جائز ہوتا ہے۔ جیسے رُبَّمَا الْخَلِیلُ مُقْبِلٌ وَرُبَّمَا اَقْبَلَ الْخَلِیلُ۔ اور کبھی اس کا عمل اس صورت میں بھی رہتا

ہے۔ جیسے رُبَّمَا ضَرْبَةٌ بِسَیْفٍ صَیْقِلٍ۔

الرَّابُّ۔ سوتیل باب۔ الرَّابَّةُ۔ سوتیل ماں۔

الرَّبِّبُ۔ بہت پانی سیٹھا پانی۔ الرَّبَابُ۔ سارنگی کے مانند ایک باجرہ۔ سفید بادل، واحد (رَبَابَةٌ)۔

الرَّبَابُ۔ عمدہ، دوست، جماعتیں جن میں سے ہر ایک جماعت دس کی تعداد لیتی ہو۔ الرَّبَابَةُ۔ سرداری، عمدہ، گورنمنٹ۔

الرُّبِّيُّ۔ وہ بکری جس نے بچہ جنا ہو۔ یا اس کا بچہ مر گیا ہو۔ ابھی کی بیابھی ہوئی بکری۔ مضبوط گروہ۔ حاجت، نعمت احسان۔

الرُّبُوبَةُ وَالرُّبُوبِيَّةُ۔ سرداری ملکیت الرَّبَابُ۔ جماعت۔

الرُّبَّانُ۔ ملاجوں کا سردار۔ وَالرُّبَّانُ جماعت، کہا جاتا ہے۔ "اِخْذَ الشَّیْءَ بِرُبَّانِیْہ" یعنی اس نے تمام چیز لے لی۔

الرَّبِیبُ وَالرُّبُوبُ۔ سوتیل لڑکا۔ سوتیل باب۔ ج۔ اَرْبَکَ۔

الرَّبِیبَةُ۔ دایہ۔ بیوی کی لڑکی۔ سوتیل ماں۔ ج۔ رَبَابٌ۔

الرُّبُوبُ۔ پالا ہوا غلام۔

الرَّبُّ۔ ٹھہرنے کی جگہ یا اجتماع کی جگہ کہتے ہیں "هَذَا مَرْبُ الْقَوْمِ" یہ قوم کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔

لوگوں کو اکٹھا کرنے والا آدمی۔

الرَّبَابُ (بہت پودوں والی زمین)۔ الرَّبُّ۔ مریہ، مٹھائی، وہ جس پر انعام کیا جائے۔

الرَّبَّةُ۔ ملکیت۔

الرَّبَّیَاتُ۔ رُبٌّ میں تیار کی ہوئی چیزیں۔ رَبًّا۔ چڑھنا۔ بلند ہونا۔



عَلَى جَبَلٍ - پہاڑ سے جھانکنا۔
 فِي الْأَمْرِ - کسی امر میں غور کرنا۔
 الْقَوْمِ وَالْقَوْمِ - قوم کا نگہبان۔
 وَدِيدٌ بَانٌ - الشَّيْءُ - بلند
 کرنا۔ الْمَالُ - حفاظت کرنا۔
 اصْلَاحٌ کرنا۔ لے جانا۔ کہتے ہیں
 "إِنِّي أَرَبَابُكَ عَنْ ذَلِكَ"
 میں تمہارے لیے اس کو پسند نہیں
 کرتا۔ "مَا رَبَابُ رَبِّكَ" میں نے
 اس کو نہ جانا اور نہ اس کی پروا کی
 "وَأَرَبَابُكُمْ" اس کی حفاظت کرو
 رَبَّاءُ تَرْبِيَةً - لے جانا۔
 رَابَاةٌ مُرَابَاةٌ - پُر خذر و خوف رہنا
 بچنا۔ نگرانی کرنا۔
 ارْتَبَا ارْتِبَاءً - دھمک۔ دیدبان بننا۔
 - الْمُرَبَاةُ - دیدبانی کی جگہ
 چڑھنا۔ - عَلَى الْجَبَلِ - پہاڑ پر
 سے جھانکنا۔ کہا جاتا ہے "ارْتِبَاءُ
 الشَّمْسِ مَتَى تَغْرُبُ" یعنی دیکھتے
 رہو کہ آفتاب کب غروب ہوتا ہے۔
 الرِّبَى وَالرَّبِيَّةُ - فوج کا دیدبان
 سکاوٹ۔ ج۔ رَابَايَا۔
 الْمُرَبَاةُ وَالْمُرَبَاةُ وَالْمُرَبَاةُ
 وَالْمُرَبَاةُ - دیکھ بھال کرنے کی جگہ
 پہرہ کا مینار۔ مچان۔ - الْمُرَبَاةُ
 سیرھی۔
 رَبَّتْ رَنَ ارْتَبَا - درخت ترقیبیتا۔
 پرورش کرنا۔ پالنا۔ رَبَّتْ
 الصَّيْحَى - بچہ کو پھپھکانا۔
 رَبَّتْ دَسَ رَبَّتَا - الشَّيْءُ - بند ہونا
 رَبَّتْ رَنَ رَبَّتَا وَرَبَّتْ - عَنْ
 کذا - منع کرنا۔ روکنا۔ دیر لگانا۔
 تَرْبِيَتٌ - دیر لگانا۔ پیچھے رہنا۔
 ارْتَبِيَتْ وَارْتَبِيَتْ - الْقَوْمُ - متفرق
 ہونا۔ تتر بتر ہونا۔ آمُوهُمْ

کمزور ہونا۔ کھرجانا۔
 الرِّبِيَّةُ - مانع۔ روک۔
 الرِّبِيَّةُ - دھوکہ۔ روک۔ مانع۔ ج
 رَابَاتٌ
 الرِّبِيَّةُ - روکا ہوا۔
 رَبَّيْجَ (د) وَرَبَّيْجَ دَسَ رَابَجَةً -
 کودن ہونا بے وقوف ہونا۔ کند
 ذہن ہونا۔
 تَرْبِيَجٌ - متغیر ہونا۔ کند ذہن ہونا۔
 الرِّبِيَّةُ - ایک قسم کا پودا۔
 رَبَّيْجَ دَسَ رَابَجًا وَرَبَّيْجًا -
 فِي تِجَارَتِهِ - تجارت میں نفع
 حاصل کرنا۔
 رَبَّيْجَ - فائدہ مند کرنا۔ نفع حاصل کرنا۔
 رَابَجَ مُرَابَجَةً وَارْبَجَةً -
 عَلَى سِلْعَتِهِ - نفع دینا۔
 ارْبِيحَ النَّاظِلَةَ - صبح اور دوپہر اونٹنی
 کو دوھنا۔
 تَرْبِيَجٌ وَاسْتَرْبِيَجٌ - نفع طلب کرنا۔
 الرِّبِيَجُ - ذ۔ مَالٌ رَابِيَجٌ - نفع
 دینے والا مال۔
 الرِّبِيَجُ - ج۔ ارْبَاحٌ وَارْبِيَجٌ
 الرِّبَاةُ - نفع۔ فائدہ۔ - الرِّبِيَجُ
 تجارت کے اونٹ، اونٹ کے چھوٹے بچے
 الرِّبَاةُ - شراب۔
 الرِّبَاةُ وَالرِّبَاةُ - بندر۔ بکری کا بچہ۔
 اونٹ کا بچہ۔ ج۔ رَابِيَجٌ
 مَتَجِيحٌ (رَبِيَجٌ) - نفع بخش
 تجارت۔
 رَبَّيْجَ دَسَ رَابَجًا - البعير - اونٹ کا
 ربت میں چلنا دشوار ہونا۔
 ارْبِيَجٌ - الرِّبِيَجُ - بیت کا تہ بندہ ہونا۔
 الرجل - کسی کا مصیبت میں پڑنا۔
 تَرْبِيَجٌ - الرجل - سست و ڈھیلا ہونا۔
 الرِّبِيَجُ - بڑا پالان۔

رَبَدَ (د) رُبُودًا - بِالْمَكَانِ -
 اقامت کرنا۔
 رَبَدَ (د) رُبَدًا - منع کرنا۔ روکنا۔
 رَبَدَ الْاِبِلَ - اونٹ کو بارہ میں
 باندھنا۔
 رَبَدَتِ - الشَّاةُ - بکری کے فتن میں سیاہ
 سفید داغوں کا ہونا
 تَرْبِيَتٌ - السَّمَاءُ - آسمان کا بادل والا
 ہونا۔ الرجل - ترش رو ہونا۔ تیوری
 چڑھانا۔ اللون - رنگ کا
 متغیر ہونا۔
 ارْبَدَ ارْبَدًا ارْبَادًا ارْبِيَدًا
 خاکستری رنگ والا ہونا۔ - الارْبَدُ
 خاکستری رنگ والا ہونا۔ - عَامٌ
 ارْبَدٌ - قحط کا سال۔ مؤنث۔
 رَبْدَاءُ - الرُّبْدَاءُ - سخت و
 سنگین۔ - دَاهِيَةٌ رَبْدَاءُ
 سنگین و کڑی مصیبت۔ - الرُّبْدُ
 اونٹ وغیرہ کا بارہ۔ گھروں کے
 پیچھے کا میدان یا گھیر۔ کھجوروں کے خشک
 کرنے کی جگہ۔
 الْمُتَرْبِدُ - شير
 رَبَدَ دَسَ رَبَدًا - چلنے میں تیز قدم اور
 کام میں تیز دست ہونا۔ صفت۔
 (رَبَدٌ) کہتے ہیں "هُوَ رَبَدٌ
 الْعَيْنُ" وہ تنہا شکست خوردہ ہے
 مؤنث (رَبْدَةٌ) - لَشَّةٌ رَبْدَةٌ
 کم گوشت والا مسوڑھا۔
 ارْبَدٌ - الثَّوْبُ او الْحِلَ - کپڑے
 یا رسی کو کاٹنا۔
 الرُّبْدَةُ وَالرُّبْدَةُ - وہ جیتھر جس سے
 سنار زیور صاف کرتا ہے۔ کوڑے کا
 پھندنا۔ رونی کا کالا جو اونٹ کے کان
 یا گردن میں ڈکا دیا جاتا ہے۔ وہ
 اونٹ جس سے اونٹ کی ماش کی جاتی

ہے۔ بوتل کا ڈھکن۔ ج۔ رِبْذُ
وَرِبَاذُ وَرِبْذُ
الرِبْذَةُ۔ بے خیر آدمی۔ گندگی۔
الرِبْذُ۔ نیل گاؤں کا گلہ۔
رِبْذُ (ر) رِبَاذُ۔ چالاک و دانائے ہونا۔
رِبْذُ۔ الرِبْذَةُ۔ مشک بھنا۔
رِبْذُ۔ الرِبْذُ۔ چیز کا تمام و کامل ہونا۔
۔۔۔ الرِبْذُ۔ زیرک و دانایا۔
رِبْذُ (ر) رِبْذُ۔ رِبْذُ۔ دو ہنر
مارنا۔ (ر) رِبْذُ، الرِبْذَةُ
مشک بھنا۔
رِبْذُ۔ رِبْذُ۔ غضبناک کرنا۔
رِبْذُ۔ الرِبْذُ۔ گچے کا ایک
دوسرے میں گھس جانا۔ ٹھوس ہونا۔
پیوستہ ہونا۔
رِبْذُ۔ رِبْذُ۔ الرجل۔ ملک
میں جانا۔ فی امرہ۔ تصرف
کرنا۔ اَمْرُهُ۔ کام کزور ہونے
کے باعث سب کا متفرق ہونا۔
الرِبْذُ۔ مص۔ ناپسند اور بری بات۔
بہت۔ کہتے ہیں۔ "جَاءَ بِنَا لِرِبْذِ"
وہ بہت مال لایا۔
الرِبْذُ۔ سخت مصیبت۔ ج۔ رِبْذُ۔
کہا جاتا ہے۔ "جَاءَ بِأَمْرٍ رِبْذٍ"
وہ مصائب لایا۔
الرِبْذُ۔ بہادر مصیبت، دو ہنر سے مارا
ہوا۔ یا مصیبت زدہ۔ ٹھوس۔
أَمْرُ الرِبْذِ۔ سانپ۔ مصیبت۔
الرِبْذُ۔ چھتر کے مشابہ ایک سبزی
جس کا مزہ ترش مائل میٹھا ہوتا ہے۔
رِبْذُ۔ الشَّجَرُ۔ درخت کا پتہ لانا۔
بعض کے نزدیک درخت کا پھل لانا۔
الرِبْذُ۔ مختلف رنگوں والا۔ مؤنث
رِبْذُ۔ اَرْضُ رِبْذَاءُ۔ مختلف
رنگوں کی گھاس والی زمین۔



رِبْضُ (ر) رِبْضًا۔ کسی کے لیے برائی
یا بھلائی کا انتظار کرنا، کسی کو برائی
پہنچانے کے لیے موقع کی تاک
میں رہنا۔
رِبْضُ۔ انتظار کرنا۔ عَنِ الامير
کسی امر سے رک جانا۔ فی المكان
کسی جگہ رہنا۔ رِبْضًا۔ مال
کی گرانی کا انتظار کرنا۔
رِبْضُ (ر) رِبْضًا وَرِبْضًا وَ
رِبْضًا۔ الدَّابَّةُ۔ جانور کا
گھٹنوں پر بیٹھنا۔ رِبْضُ الْأَسَدِ
عَلَى قَرْيَتِهِ وَالْقَوْمُ عَلَى
قَرْيَتِهِ۔ دبوچ کر بیٹھنا۔
رِبْضُ (ر) رِبْضًا وَرِبْضًا۔
فلاناً او المكان۔ پناہ لینا۔
رِبْضُ۔ بالمكان۔ کسی جگہ روکے
رکھنا۔ الرِبْذُ۔ جانوروں کو ان
کے بیٹھنے کی جگہ میں روکے رکھنا۔
رِبْضُ۔ سورج کا سخت گرم ہونا، اذیت
کو احاطہ میں لانا، کسی پر طاق سے
زیادہ بوجھ لاد دینا۔
رِبْضُ۔ صنعت کی وجہ سے کسی جگہ پر
ٹھہرے رہنا۔
الرِبْضُ (ر)۔ (الرِبْضُ) شیر
الرِبْضُ۔ الرِبْضُ کا مؤنث۔
بلند امور سے عاجز و قاصر چھٹی ناک
والے کو کہا جاتا ہے۔ اَرَبْنَتْهُ
رِبْضُهُ عَلَى وَجْهِهِ۔
الرِبْضُ وَالرِبْضُ۔ والرِبْضُ۔
وَالرِبْضُ۔ بیوی، بہن، ماں۔
رِبْضُ رِبْضٍ عَنِ الْأَسْفَارِ أَوْ
عَنِ الْحَاجَاتِ۔ وہ آدمی جو نہ
سفر کے لیے نہ حاجت روائی کے لیے
باہر نکلتے۔
الرِبْضُ۔ عمارت کی بنیاد۔ چیز کا زمین سے

چھونے والا حصہ۔ چیز کا درمیان۔
الرِبْضُ۔ مِنَ الْبَقْرِ۔ بیٹی ہوئی گاؤں
کا گلہ۔
الرِبْضُ۔ بکریوں کا بارہ۔ قوم کے رہنے
کی جگہ۔ شہر کا گرد و نواح۔ شہر پناہ،
آنتیں۔ کجاوہ کی رسی۔ ہر ایسی چیز
جس کی طرف پناہ لی جائے۔ یا آرام
لیا جائے۔ جیسے رشتہ دار، مال، گھر
وغیرہ۔ ج۔ اَرَبَانُ۔
الرِبْضُ وَالرِبْضَةُ۔ بیٹھے رہنے
والا آدمی۔
الرِبْضَةُ۔ لاشوں کا ڈھیر۔ لاش۔ آدمیوں
کا گروہ۔ بکریوں کا گلہ۔ بیٹھنے کی
بیڑت۔
الرِبْضُ۔ مِنَ الْقُلُوبِ۔ آباد گاہ۔
مِنَ الدَّرُوعِ۔ فراخ زہ۔
مِنَ الشَّجَرِ۔ بڑا درخت۔ ج۔
رِبْضُ۔ قَرْيَةُ رِبْضُ۔ بڑی مشک
جس کا اٹھانا دشوار ہو۔
الرِبْضُ۔ احاطہ میں اکٹھا کیا ہوا ریوڑ۔
معہ چرواہوں کے۔ پیٹ میں آنتوں کے
جمع ہونے کی جگہ۔
الرِبْضُ۔ جانوروں کے بیٹھنے کا احاطہ
ج۔ مَرَابِضُ (ر)۔ وَالْمَرَابِضُ۔ پیٹ
میں آنتوں کے جمع ہونے کی جگہ۔
رِبْطُ (ر) رِبْطًا۔ مضبوط باندھنا۔
اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ۔ اللہ تعالیٰ
نے اس کے دل کو قوت بخشی اور صبر
عطا فرمایا۔ (ر) رِبْطًا۔ بَاطِلًا
رِبْطًا۔ رِبْطًا وَرِبْطًا۔
الامر۔ کسی امر پر ہمیشگی اختیار کرنا۔
۔۔۔ الْجَيْشُ۔ دشمن کی سرحد کے
پاس لشکر کا ہمیشہ پڑا رکھنا۔
رِبْطُ۔ الماءُ فی المكان۔ کسی جگہ پانی

کا جمع ہو کر بھڑھانا۔

الرَّبْطُ - فَرْسًا - سرحد کی حفاظت کے لیے گھوڑے کو تیار کرنا - فی الحبل - رسی میں بندھ کر لٹکنا۔

الرِّبَاطُ - مص - جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔ دل - گھوڑا - قلعہ - وہ جگہ جہاں لشکر حفاظت سرحد کے لیے پڑاؤ ڈالے۔ ج - رِبْطٌ -

الرباطات - فقرہ کے لیے وقف کیے ہوئے مکانات - واحد الرباط - قوس رباطہ - مگیا یا بیماری سے صحت یاب ہو گیا۔

الرباط - فاء - رابط - عابد، زاہد، حکیم - دنیا سے کنارہ کش - رابط - الجاش - بہادر - نڈر۔

الرباطة - تعلق، ملاپ، عہد نامہ - الربیط - بندھا ہوا - حکیم، درویش - رباط الجاش - بہادر۔

الربیطة - بندھے ہوئے جانور۔ الرباط - تانت کو باندھنے والا۔

الربط - بندھے ہوئے اور چارہ دیے ہوئے گھوڑے۔

المربط والمربط - جانوروں کے باندھنے کی جگہ - ج - مربط -

المربط والمربطة - تعلق، گانٹھ - وہ رسی جس سے جانور کو باندھا جائے۔

المربطة - آپس میں تعلق رکھنے والی جماعت - فوجی چوکی - ج - مربطات -

ربع (ف) ربعا - توقف کرنا، انتظار کرنا - کہتے ہیں - اربع عليك او

على نفسك او على طلعت - ٹھہرو توقف کرو - بالمكان - اقامت کرنا - عنہ - رکنا -

عليه - شفقت و مہربانی کرنا - الوجل - خوشحالی کا سال پانا۔

اپنی قوت کی جانچ کے لیے پتھر اٹھانا۔

ربعيتہ - راضی کرنا - الابل - اونٹوں کا چوتھے دن

پانی پینا - ربعت عليه - الحقی - چوتھے دن بخارا آنا۔

ربوعا، الربيع - موسم بہار کا آنا۔

ربع (ف) ربعا - الحبل - چار رٹیوں کی رسی بننا - چوتھے پانچالیس نمبر کو پورا کرنا - چوتھائی لینا۔

ربيع - القوم - موسم بہار کی بارش پانا - الوجل - کسی کو چوتھیا آنا

چاروں کی باری سے بخارا آنا۔ ربیع - البيت او الحوض - گھریا حوض کو چوکور کرنا۔

ربعا - الحبل - بوجھ اٹھانے کی لکڑی کو بوجھ کے نیچے لگانا۔

اربیع - چوتھے سال میں داخل ہونا۔ القوم - چار ہونا - فصل

ربیع - میں داخل ہونا۔ چراگاہ یا پانی والی سرسبز جگہ پر پہنچنا۔ اونٹوں

کو پانی پر جانے کے لیے آزاد چھوڑ دینا۔ اربیع الوجل - بڑھاپے

میں بچہ پیدا ہونا۔ اربیع - الوجل - چوتھیا بخارا آنا۔

تربیع - فی جلوسہ - چار زانو ہو کر بیٹھنا۔ د - واربیع - الحبل -

موسم بہار کے سبزہ کو چرکراؤٹ کا فربہ ہونا۔ بالمكان - کسی جگہ موسم بہار

گزارنا - واربیع الحجب - پتھر اٹھانا۔

استربیع - الومل - ریت کا تہہ بننا۔ تودہ لگنا - الغبار - غبار

اٹھنا - البعير للسير - اونٹ کا چلنے کی طاقت پانا - الشیء -

طاقت رکھنا۔

الربیع - گھر گھر کا ارد گرد - محلہ، اترنے کی جگہ۔ لوگوں کا گروہ۔ تابوت۔ ج۔

رباع و ربوع و اربع و ارباع (د - و الربیع) درمیانہ قد کا آدمی

کہا جاتا ہے۔ رجب ربیع و ربیع۔

الربیع و الربیع - چوتھائی۔ ج۔ ارباع و ربوع۔

الربیع - آغاز موسم بہار میں پیدا ہونے والا اونٹنی کا بچہ۔ اگر موسم بہار کے آخر

میں پیدا ہو تو اس کو ہبیع کہتے ہیں۔ کہتے ہیں - ما لہربیع ربیع ولا ہبیع - ج رباع و ارباع۔

مؤنث۔ ربعة - ج۔ ربعات و رباع۔

الربیع - چوتھے دن اونٹوں کو پانی پلانا۔ حقی الربیع - چوتھیا بخار۔

الرباع - فاء - چوتھا۔ ربیع رباع۔ بہت سرسبز موسم بہار - ابل

رباع - چوتھے دن پانی پینے والے اونٹ۔

رباع - چار چار - کہا جاتا ہے - اتوا رباع - یعنی وہ چار چار آئے۔

الربعة - (مذکر و مؤنث ہر دو کے لیے) میانہ قد۔ ج۔ ربعات و ربعات عطر فروش کا ڈبہ۔

الرباع - خوش حالی - کہا جاتا ہے - ہمد علی رباع عہد - وہ اپنی خوشحالی پر ہیں۔

الرباعة والرباعة - اچھی حالت۔ سرداری۔ مملوک چیز جس سے انسان کی حالت اچھی ہو۔

الرباعیة - سامنے کے چار دانٹوں اور پچیسوں کے درمیان والا دانٹ۔ ج۔

الرباعیة - سامنے کے چار دانٹوں اور پچیسوں کے درمیان والا دانٹ۔ ج۔

الرباعیة - سامنے کے چار دانٹوں اور پچیسوں کے درمیان والا دانٹ۔ ج۔

الرباعیة - سامنے کے چار دانٹوں اور پچیسوں کے درمیان والا دانٹ۔ ج۔

الرباعیة - سامنے کے چار دانٹوں اور پچیسوں کے درمیان والا دانٹ۔ ج۔

رَبَاعِيَّاتٌ۔

الرَّبَاعِيَّ - رباعی دانت گرا ہوا جانور۔

ج۔ رُبْعٌ دُرْبَعٌ وَرُبْعَانٌ۔

وَرَبَاعٌ وَرُبْعٌ وَاسْرَبَاعٌ۔

مؤنث۔ رَبَاعِيَّةٌ ج۔ رَبَاعِيَّاتٌ۔

الرَّبَاعِيَّ - چار سے مرکب۔

الرَّبْعِيَّ ج۔ اَرْبَعَةٌ وَرَبَاعٌ و

اَرْبَعَاءٌ - موسم بہار۔ موسم بہار

کی بارش یا سبز اور گھاس ج۔

اَرْبَعَاءٌ وَرُبْعَانٌ - زمین کے

لیے پانی کا حصہ ج۔ رُبْعٌ۔

چوتھائی۔

الرَّبِيعِيُّ - مِنَ الْمَسَاكِين - موسم بہار

گزارنے کی اقامت گاہ۔

الرَّبِيعَةُ - طاقت آزمانے کے لیے

اکٹایا جانے والا پتھر۔ باغ۔ لوبے کی

خود۔ توشہ دان۔

الرَّوْبِعُ - کمزور۔ کمینہ۔

الرَّوْبِعَةُ - پست قد۔ چار زانو بیٹھنے

والے کی بیٹھک۔ اونٹ کے بچوں کی

ایک بیماری۔

اَرْبَعَةٌ - چار۔ مؤنث۔ اَرْبَعٌ -

الرِّيَاحُ اَلْاَرْبَعُ - چار سمت

چلنے والی ہوائیں - ذَوَاتُ

اَلْاَرْبَعِ - چوپائے۔

اُمَرٌ اَرْبَعٌ وَاَرْبَعُونَ - ایک قسم کا کپڑا

(کن سلائی)۔

اَلْاَرْبَعَاءُ - بدھ کا دن۔ اس کا تشبیہ

اَرْبَعَانِ اور جمع اَرْبَعَاثُ

وَاَرْبَعَاثُ ہے۔

اَلْاَرْبَعَاءُ - گھر کا ستون۔

اَرْبَعُونَ - چالیس۔

الرَّبِيعُ - موسم بہار کی بارش۔ د۔

وَالْمُرْتَبِعُ - موسم بہار کی اقامت گاہ۔

الرَّبِيعُ وَالْمُرْتَبِعَةُ - وہ لکڑی جس کے

سہارے سے جانور پر بوجھ لاوا

جاتا ہے۔

الرَّبِيعُ - موسم بہار میں بیابانے والی

اونٹنی۔

الرَّبِيعُ - چوتھیا بخار والا۔

الرَّبِيعُ - مریج - وہ شکل جس کے چاروں

ضلع برابر ہوں۔ چار پاؤں والا۔ نگر۔

زمین کا ٹکڑا۔ حاصل ضرب جو کسی عدد

کو فی نفسہ ضرب دینے سے حاصل ہو۔

الرَّبِيعُ - وہ جگہ جس کی سبزی موسم بہار

کے شروع میں اُگے۔ غنیمت کا چوتھا

حصہ جو زمانہ جاہلیت میں سردار یا

کرتا تھا۔ موسم بہار میں بچہ دینے والی

اونٹنی۔ (د۔ وَالْمُرْتَبِعُ وَالْمُرْبُوعُ)

درمیانہ قد۔

الرَّبِيعُ - موسم بہار کے آغاز کی بارشیں۔

الرَّبِيعُ - ایک قسم کا چوبہ جس کے اگلے

پاؤں چھوٹے اور پچھلے لمبے ہوتے ہیں۔

ج۔ رِبَاعِيَّةٌ۔

رَبْعٌ (ن۔ رِبْعًا - الْقَوْمُ فِي النِّعِيمِ -

خوشحال اور آسودہ زندگی گزارنا۔

رَبْعٌ (ن۔ رِبْعًا - عَيْشَةُ - زندگی میں

فراخ حالی نصیب ہونا۔ الرجلُ

بِدَكَارٍ بَعِيًّا بِنَا - صفت (رَبْعٌ)

رَبْعٌ (ن۔ رِبْعًا - بہت ہونا۔

الرَّبِيعُ - زیادہ۔ وسیع۔

رَبْعَةُ (ن۔ رِبْعًا - رِبْعًا وَرَبْعَةً - پھندے

سے باندھنا۔ د۔ فِي الْاَمْرِ - کام

میں ڈالنا۔ وَرَبْعٌ الْكَلَامُ - تقریر

کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔ کہا جاتا ہے

"رَبْعٌ الرَّجُلُ اِثْنَاءَ حَبْلِهِ او

اَرْبَاعُهُ" - اپنے بکری کے بچوں کے

لیے رسی کا پھندا بنایا۔

رَبْعَةً - لٹکانا۔ کہا جاتا ہے "رَبْعَةً

الشَّيْءُ فِي عُنُقِي" - میں نے اس چیز

کو اپنی گردن میں لٹکایا۔

رَبْعَةً - فِي الْجَبَالَةِ - پھندے میں پھنسا۔

لُكْنَا - فِي الْاَمْرِ كَيْسِي كَامٍ مِّنْ پھنسا

الجبنا۔ کہتے ہیں "ادْبَقْتُ فِي جَبَالَتِهِ"

یعنی میں اس کی جال سازی میں پھنس گیا۔

الرَّبِيعُ - پھندوں والی رسی۔

الرَّبِيعَةُ - وَالرَّبِيعَةُ - رسی میں پڑا ہوا

پھندہ ج۔ رِبْعٌ وَرَبَاقٌ وَاَرْبَاقٌ

کہتے ہیں "حَلَّ رِبْعَتُهُ" - اس نے

اس کی تکلیف ٹال دی۔ وَتَقْصُوا

الْحَبَالَ وَاَكْلُوا الرِّبَاقَ - انھوں

نے اپنے عمد و پیمان توڑ دیے۔

الرَّبِيعُ - پھندے میں بندھا ہوا پھنسا ہوا۔

الرَّبِيعَةُ - چربی والی روٹی۔

رَبْعٌ (ن۔ رِبْعًا - كَيْسِي بَحِيْدَةٍ اَمْرِ مِّنْ پھنسا۔

صفت (رَبْعٌ وَرَبِيعٌ)

رَبْعٌ (ن۔ رِبْعًا - كَيْسِي بَحِيْدَةٍ اَمْرِ مِّنْ پھنسا۔

صفت (رَبْعٌ وَرَبِيعٌ)

رَبْعٌ (ن۔ رِبْعًا - كَيْسِي بَحِيْدَةٍ اَمْرِ مِّنْ پھنسا۔

صفت (رَبْعٌ وَرَبِيعٌ)

رَبْعٌ (ن۔ رِبْعًا - كَيْسِي بَحِيْدَةٍ اَمْرِ مِّنْ پھنسا۔

صفت (رَبْعٌ وَرَبِيعٌ)

رَبْعٌ (ن۔ رِبْعًا - كَيْسِي بَحِيْدَةٍ اَمْرِ مِّنْ پھنسا۔

صفت (رَبْعٌ وَرَبِيعٌ)

رَبْعٌ (ن۔ رِبْعًا - كَيْسِي بَحِيْدَةٍ اَمْرِ مِّنْ پھنسا۔

صفت (رَبْعٌ وَرَبِيعٌ)

رَبْعٌ (ن۔ رِبْعًا - كَيْسِي بَحِيْدَةٍ اَمْرِ مِّنْ پھنسا۔

صفت (رَبْعٌ وَرَبِيعٌ)

رَبْعٌ (ن۔ رِبْعًا - كَيْسِي بَحِيْدَةٍ اَمْرِ مِّنْ پھنسا۔

صفت (رَبْعٌ وَرَبِيعٌ)

رَبْعٌ (ن۔ رِبْعًا - كَيْسِي بَحِيْدَةٍ اَمْرِ مِّنْ پھنسا۔

صفت (رَبْعٌ وَرَبِيعٌ)

رَبْعٌ (ن۔ رِبْعًا - كَيْسِي بَحِيْدَةٍ اَمْرِ مِّنْ پھنسا۔

صفت (رَبْعٌ وَرَبِيعٌ)



بکثرت ہونا

دَبَلَّ وَأَدْبَلَّ - المکان۔ کسی جگہ کا خزاں کے پودے اگانا۔

دَابَلَّ - بدکردار ہونا۔ اور برائی کی تاک میں رہنا۔

تَدَابَلَّ - لوٹ ڈالنا۔ اور شیر کا سا کام کرنا۔

تَدَبَّلَ - موسم خزاں کی سبزی کھانا شکار کرنا۔ پر گوشت ہونا۔ جَسْمُهُ

جسم کا پھولنا۔ الارضُ زمین کا خریف کی سبزی سے ہرا بھرا ہونا

خزاں کے آنے پر خشک ہو جانے کے بعد سرسبز ہونا۔ تَدَبَّلَ

القوم۔ موسم خزاں کی سبزی چرانا۔

أَدْبَلَ مَالَهُ - مال زیادہ ہونا۔ الوَبْلُ - موسم خزاں کے پودے۔ یا

سبزیوں جو بغیر بارش کے رات کی نمی سے نمو پاتے ہیں۔ ج۔ دَبُولُ۔

الرَبْلَةُ وَالرَبْلَةُ - رانوں کی جڑیں ہر جگہ کا موٹا گوشت۔ ج۔ رِبَلَات۔

الدَّبِيلُ - چور جو تنہا لوٹ ڈالے۔ موٹا۔ فَرْج۔ الوَبَالَةُ وَالرَبْلَةُ۔

گوشت کی کثرت۔ الوَبِيلَةُ۔ رطوبت۔ نعمت۔ زندگی کی آسودگی۔

الْمِرْبَال - دراز پیچیدہ نباتات۔ شیر۔ ج۔ دَبَابِيلُ۔

الْمِرْبَالُ - وہ زمین جس میں خزاں کے موسم میں جھاڑیاں یا درخت بکثرت ہوں۔

أَدْبَنَهُ - بیعانہ دینا۔ تَدَبَّنَ - جہاز کا کپتان بننا۔

الرَّوْبُونُ - الرَّوْبُونُ - الرَّوْبَانُ - بیعانہ۔

الرَّوْبَانُ وَالرَّوْبَانِي - جہاز کا کپتان۔ ج۔ دَبَابِنَةُ هَدَابِينُ وَرَبَانُ

کُلِّ شَيْءٍ - ہر چیز کا بڑا حصہ۔

دَبَا - يَدْبُو دَبَاءً وَدَبُوءًا - المال مال کا زیادہ ہونا۔ بڑھنا۔ الرَّوَابِيَةُ

ٹیلہ پر چڑھنا۔ (د۔ دَبُولُ الْفَرْسُ پھولنا، گھوڑے کا بھاگنے سے سانس چڑھنا

(د۔ دَبُولُ وَدَبُوءًا) الولد۔ بچہ کا نشوونما پانا

رَبِّي تَرْبِيَةً - وَتَرْبِي - الولد۔ بچہ کو پرورش کرنا۔ پالنا۔ منذب بنانا

رَبِّي التَّقَاحَ بِالْمُسْكِرِ - سبب کا مَرَبَّہ ڈالنا۔

رَبَانِي مَرَابَاةً - سود پر مال دینا۔ الرجلُ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔

أَرَبِي - أَرَبَاءً - سود لینا۔ الشَّيْءُ بڑھانا۔ كُ - امید دلانا۔

عليه في كذا أَرَبَاءَهُ - أَرَبَاءُ، زیادہ کرنا۔

الرَّوْبَا - زیادتی۔ سود۔ بیاج۔ نسبت کے لیے ربوئی۔

الرَّوْبَاءُ - زیادتی۔ مہربانی۔ احسان۔ الرَّوَابِيَةُ - ج۔ رَوَابٍ - (د۔ و

الرَّوْبُوعَةُ وَالرَّوْبُوعَةُ وَالرَّوْبُوعَةُ - ج۔ رَبِّي دُرِّي - ٹیلہ۔

الرَّوْبُوعَةُ - دس لاکھ۔ الرَّوْبُوعَةُ - دس ہزار کے قریب کی جماعت۔ ج۔ رَبِّي۔

الرَّوْبِيَةُ - حشرات الارض میں سے ایک کیڑا۔

الرَّوْبَاةُ وَالرَّوْبَاةُ - ٹیلہ۔ الرَّوْبُ - ٹیلہ۔ چڑھا ہوا سانس، جماعت

ج۔ أَرَبَاءُ - الرَّوْبُ وَالرَّوْبُوعَةُ - اطباء کے نزدیک جوف کی سوجن

ضيق النفس۔ الرَّوْبِيَةُ - چچا زاد بھائی

الرَّوْبِيَةُ - گھر کے آدمی۔ چچا زاد بھائی

کتنے ہیں۔ جَاءَ فِي الرَّوْبِيَةِ قَوْمُهُ۔

وہ اپنے گھروالوں اور قبیلے کے لوگوں میں آیا۔ ران کی جڑ۔ یا ران کے

اوپری حصے اور پیٹ کے درمیان کا حصہ۔

رَتَّ دَس، رَتَّتَا - ہکھلانا، تٹلانا۔ صفت مذکر آدَتُ، صفت مؤنث

رَتَّاءُ وَرَتَّتِي - ج۔ رَتَّ - آدَتُهُ - رَتَّتَانَا - اللہ۔ ہکھلانا۔

الرَّتَّ - سخت۔ نرسور۔ جنگلی سور۔ ج۔ رَتَّتُهُ - الرَّتَّ - رئیس، پیشوا

ج۔ رَتَّتُوتُ - رَتَّاءُ (دَف) رَتَّوْا - گلا گھونٹنا۔

الرَّتَّاءُ - گرہ سخت لگانا۔ فی المکان - اقامت کرنا۔

الرجلُ - چلا جانا۔ أَرَتَّاءُ - رُک رُک کر ہنسنا۔

رَتَّبَ (دَن) رَتَّبًا وَرَتَّبًا - الشَّيْءُ چیز کا اپنی جگہ بلا حرکت قائم و ثابت

رہنا۔ سیدھا کھڑا رہنا۔ کہتے ہیں "رَتَّبَ فِي الصَّلَاةِ" یعنی نماز میں سیدھا

کھڑا رہا۔ رَتَّبَهُ - قائم رکھنا۔ ترتیب دینا۔ درجہ

پر رکھنا۔ أَرَتَّبَ - سیدھا کھڑا ہونا۔ غنی کے بعد

سوال کرنا۔ الغلامُ اللُّعْبُ - نصب کرنا۔ کھڑا کرنا۔

تَرَتَّبَ - ترتیب میں ہونا۔ بلا حرکت و جنبش کھڑا ہونا۔

الرَّتَّبُ - سختی۔ دشواری۔ ابھری ہوئی زمین

قریب قریب چٹانیں جو ایک دوسرے سے بلند ہوں۔ (د۔ والرَّتَّبُ)

چھنگلیا اور اس کے برابر والی انگلی کے درمیان کا فاصلہ اور چھنگلیا کے

برابر والی اور بیچ کی انگلی کے مابین جگہ۔

الرَّوْتَبَةُ: انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔
الرَّوْتَبَةُ: درجہ۔ مرتبہ۔ جہ۔ رُتَبٌ۔
الرَّوْتَبَةُ: قائم و ثابت شے۔ دوام۔
ہمیشگی۔ مٹی۔ وہ غلام جو برابر تین
آقاؤں کی غلامی میں رہ چکا ہو کہتے
ہیں: جَاؤْ اَتُرْتَبَاً وہ سب کے
سب آئے۔

الرَّوْتَبَةُ: فا۔ عیش راتیب۔ دائمی
عیش۔ تنخواہ۔ وظیفہ۔ پنشن۔ جہ
رَوَاتِبُ۔ الرَوَاتِبُ يَسْنُوْنَ
مؤکدہ۔

الرَّوْتَبَةُ: اعلیٰ درجہ۔ درجہ۔ جہ
مَرَاتِبُ۔

رَتَبَہ (ن) رَتَبًا۔ الباب۔ دروازہ
بند کرنا۔ (ر) رَتَبَانَا، الصَّبِيْ
بچہ کا چلنے لگنا۔

رَتَبَہ (س) رَتَبًا۔ الخَطِيْبُ: مقرر کا
تقریر میں رک جانا۔ کلام دشوار ہونا۔
اَرْتَبَہ۔ الباب۔ دروازہ کو مضبوطی سے

بند کرنا۔ التَّنْبِيْہُ: برت کا پیغام کرنا
سرسبزی و ارزانی کا عام ہونا۔

الدَّجَاجَةُ: مرغی کا انڈوں
سے پیٹ بھر جانا۔ البَحْرُ: سمندر کا
جوش میں آنا۔

اَلْتَبَجَةُ وَاُذُنُ التَّبَجَةِ وَاُسْتُرُنُجَةٍ
علی الخطیب: خطیب و واعظ کا
تقریر میں بند ہو جانا۔

الرَّوْتَبَةُ وَاَلْوَتَا جُہ: بڑا دروازہ۔ پھانک
بڑا بند دروازہ جس میں کھڑکی نہ ہو۔
سَكَنَةُ (ر) تَبَجُہ: غیر نافذہ گلی۔

مَالٌ رَوْتَبَجٌ: ناقابل حصول مال۔
الرَّوْتَا جَةُ: چٹان۔ جہ رَتَا جُہ۔ (ر)
وَالْمَوْتَبَجُہ: تنگ راستہ۔ جہ
مَرَاتِبُہ۔

الرَّوْتَا جُہ: چٹنی، جس سے دروازہ بند کیا

جائے۔ کبھی۔
رَتَبَہ (ف) رَتَبًا۔ العَبِيْثُ:
گندھے ہوئے آٹے میں پانی زیادہ ہونے
سے اس کا پتلا ہو جانا۔ بالمکان
کسی جگہ رہنا۔ عَنِ الْخَيْرِ: بھلائی
سے رکنا۔ پیچھے رہنا۔

الرَّوْتَبَةُ: سخت کپڑا۔ دلدل۔ يَجْلُوْ
اَرْتَبَہ: سخت چمڑا۔

رَتَبَہ (ن) رَتَبًا: تار یا ربونے میں اٹکنا۔ ہٹلانا
رَتَبَہ (ف) رَتَبًا: رَتَبًا و رَتَبًا: ایسی خوشحال زندگی بسر کرنا کہ ہر مراد
پوری ہو۔ فی المكان: کسی جگہ غورو

نوش کی پوری آسودگی و فراوانی کے
ساتھ رہنا۔ صفت۔ (ر) رَتَبَہ: جہ
رَتَبَہ و رَتَبَہ و رَتَبَہ و رَتَبَہ
وَرَاتَبُونَ۔ رَتَبَہ فی مَالٍ

خلائق۔ اس نے فلاں کے مال میں
کھانے پینے میں خوب موج اڑائی۔
فی لَحْمٍ خَلَائِقٍ: غیبت کرنا،

اَرْتَبَہ۔ القوم: قوم کا سرسبز و شاداب
زمین میں سپینا اور مویشی چرانا۔

الارض: چرنے والے کو آسودہ و
سیر کرنا۔ الغَيْثُ: بارش کا چارہ
اگانا۔ الدَّوَابُّ: مویشی کو چرنے

دینا۔
الرَّوْتَبَةُ: سرسبزی و شادابی کی کثرت۔

اور اسی سے ہے یہ قول: "اَسْمَعْنِي
الْقَيْدَ وَالرَّوْتَبَةَ: قید و آسودگی
نے مجھ کو فرہ کر دیا۔

الرَّوْتَبَةُ: وہ آسودہ حال جو اپنی سب مراد پائے
الرَّوْتَا جُہ مِنَ النَّاسِ: لوگوں کی کثرت۔
الرَّوْتَا جُہ: اپنے اونٹوں کو شاداب چراگا ہوں

میں لے جانے والا۔
الرَّوْتَبَةُ: آسودہ جس کو سب کچھ ملے۔
الرَّوْتَبَةُ: چراگاہ۔

رَتَبَہ (ن) رَتَبًا۔ الثَّوْبُ: کپڑے
کی پھٹن کو درست کرنا۔ جوڑنا۔
الْفَتْقُ: پھٹن کی اصلاح کرنا۔ درستی
کرنا۔ کہتے ہیں: هُوَ الرَّاْتِقُ وَاَلْفَاتِقُ
وہ کام کی اصلاح کرنے والا ہے۔ و
رَتَبَہ فَتَقَهُمُہ: اس نے ان کے
درمیان صلح کرا دی۔ السُّنْبُ:
بند کرنا۔

الرَّوْتَبَةُ: جڑ جانا۔
الرَّوْتَا قُ: دو کپڑے جن کے کنارے سے
گٹے ہوں۔

الرَّوْتَبَةُ: انگلیوں کے درمیان کی کشادگی۔
جہ۔ رَتَبَہ۔

الرَّوْتَبَةُ: عزت و شرف، بزرگی۔
رَتَبَہ (ن) رَتَبًا: رَتَبًا و رَتَبًا و رَتَبًا
— البعير: اونٹ کا چھوٹے چھوٹے

قدموں سے دوڑنا۔ پویا دوڑنا۔
اَرْتَبَہ: البعير: اونٹ کو پویا
دوڑانا۔

رَتَبَہ (س) رَتَبًا۔ السُّنْبُ: اچھے
انتظام و ترتیب میں ہونا۔ صفت
(رَتَبَہ)

رَتَبَہ (ن) رَتَبًا۔ الکلام: کلام کو اچھی طرح ترتیب
دینا۔ القرآن: قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر
خوش اسلوبی سے پڑھنا۔

رَتَبَہ (ن) رَتَبًا۔ فی القول: ٹھہر ٹھہر کر اچھی
طرح بولنا۔ کہتے ہیں: کَلَامُهُ رَتَبٌ
ہر پاکیزہ کلام۔

رَتَبَہ (ن) رَتَبًا۔ خوبصورت، ہموار دانت۔
الرَّوْتَبَةُ: پڑھائی کے وقت آواز کو پست
اور ہلکی کرنا۔ خوش آوازی سے پڑھنا

گلانے یا پڑھنے میں خوش الحانی یا حسین
ادائیگی حروف کا لحاظ رکھنا۔
الرَّوْتَبَةُ: اچھی ترتیب والا، تسلسلے والا۔

الرَّوْتَبَةُ: کپڑے کوڑے، جیسے مڑی،

ملھی وغیرہ۔ جڑ تیلادَات۔ ایک
قسم کی نبات جس کے پھول سوسن
کے پھول کے مشابہ ہوتے ہیں۔
رَتَمہ (من)، رَتَمًا۔ توڑنا۔ کوٹنا۔

— فی بنی فلان — کسی قوم یا خاندان میں پرورش پانا۔ کہا جاتا ہے ”ہا رگہ بکلمۃ“ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ — رکتیماء — رتم کے دانے سے بے ہوشی طاری ہونا سست ہو جانا۔

اَرْتَمَ وَتَرَّتْهُمَ - وَارْتَمَ
یادداشت کے لیے انگلی پر دھاگا
لپیٹنا۔

الرَّحْمَةُ - ایک قسم کا درخت جس کا بیج مسور کے مشابہ ہوتا ہے۔ واحد (رَحْمَةٌ)

المَدْحُ - مَجْرَاهُ اتَوْشَه دَان - کامل حیا -
آهسته کلام - راسته -

الْوَتَامُ - بوسيده.

الزَّيْتُونَةُ - ج. زَيْتُونٌ وَزَيْتَانٌ وَ
(الزَّيْتِيمَةُ) - ج. زَيْتَائِمٌ وَهَذَا
جَوْ كَسَى كَامٌ كَوِيَا دَلَانِ كَيْ لِيَةِ اُنْكَلِي
مِيں بَانْدھا جاتا ہے۔

البرئیح۔ آہستہ چال و رفتار۔ رقص کے
کھانے سے بے ہوش ہونے والا۔ ج
دُعا می۔ شَرُّ تَوَاصُل۔ دائمی شر
دَتَن (ن) دَتْنَا۔ الشَّحْمُ بِالْجَبِینِ۔
گندھ ہوئے اُٹے میں چربی ملانا۔

رَتَاہُ یَزُوُّ - رَتَوَا - وَصِلَا کرنا۔
باندھنا۔ القلب۔ دل کو تقویت

دینا۔ ۵ الیہ۔ ملا دینا۔
 الدلو۔ ڈول کوزمی سے کھینچنا
 آہستہ سے نکالنا۔ رتوا ورتوا
 برا سہ۔ سر سے اشارہ کرنا۔
 البرجل۔ قدم رکھنا۔

۲۱۱۔ فی ذریعہ۔ اس کا بازو کوٹ گیا۔
 الرُّوَّةُ۔ قدم۔ بلند زین۔ لمحہ۔ حد نظر۔
 دَرَّتْ (ض) رَمَاتًا وَرُتُوْتًا۔ الثوبُ
 کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ صفت (دَرَّتْ) ج
 رِمَاتٌ۔

اَدَّتْ اِرْثًا ثَا - الثوب - کپڑے کا پرانا د
 بوسیدہ ہونا - الثوب - کپڑے کو
 بوسیدہ کرنا۔

اُدُنْتُ۔ زحمی کو میدانِ جنگ سے ایسی صورت میں لایا جانا کہ اس میں زندگی کی رُمق باقی ہو۔ صفت (مُرْتَبُتٌ) الرَّتُّ۔ گھر کا گھٹیا سامان۔ جہ۔ رِثَاتٌ کہتے ہیں۔ "کَلَامٌ غَثٌ رَتُّ"۔ گھٹیا۔ ناکارہ کلام۔

الذَّيْفُ - بوسیدہ - پرانا۔
الوثيثُ - بوسیدہ، وہ زخمی جس میں
زندگی کی رمتق باقی ہو۔

البرقۃ - گھرا ردی سامان ج۔ رشت
ویدناث - کمزور لوگ۔

رَتَاءُ (د) رَتَاءُ - اللبَن - دودھ
کوگاڑھا کرنا۔ دہی جمانا۔ الشَّيْءُ -
بالشَّيْءُ - ملانا۔ - غَضَبُهُ غصہ
کا ٹھنڈا ہونا۔

آرٹھ۔ وارٹھ۔ دودھ کا گڑھا ہونا۔
 ارتھ۔ فی راہ۔ راسے میں گڑ بڑی
 کرنا۔ ارتھ علیہ الامر
 کسی امر کا گڑ بڑ ہونا۔ ارتھ
 لرثیۃ۔ وہی بینا۔

الرَّثِيءُ - وَالرَّثَاءُ - حماقت و کم فہمی
دل کی کمزوری۔

الرَّثِيئَةُ. دی۔ بے وقوفی، بیٹھلا
ہوا ترش دودھ۔ رجل
دھڑلہ کمزور دل۔ کم فہم آدمی۔
رشد (ن) رشد اُارتشد۔ المتاع
سامان کو ترتیب دے کر ادرنے بیٹھنا۔

صفت مفعولی (رَشِّیدُ و مَرْتَدُ)
رَشِّیدُ رس، رَشِّدُ و اَرْتَدُ۔ الماءُ۔ پانی کا گدلا
ہونا کہتے ہیں۔ اَحْفَقُو حَتَّى اَرْتَدُو: وہ
کھودے کھودتے تر زمین تک پہنچ گیا۔
اَرْتَدُ الْقَوْمُ۔ جماعت ہونا۔

البرئۃ والبرئۃ - لوگوں کی جماعت جو
ایک جگہ پڑاؤ ڈالے رہے۔

الْوَشْدُ - مرتب منظم، سامان و اسباب.
دند البيت - گھر کا ردی سامان.

الموتد والموتد - ياض وسحي آدمي -
رط (ن) رطوطا وارطط ورتطط -
- في قعوده - جم كربيثنا -

رَتِعَ (س) رَتْعًا - نایت حرص و لالچ رکھنا
صفت (رَتِعٌ) - ج. رَتِيعُونَ .

إِذْ تُعَيِّنُ - إِذْ تُعَيِّنَانَا - الْمَطْرُ - بَارِش
 کا پیہم برسنا - فُلَانٌ - کمزور، و
 دُھیلّا ہونا - الشَّعْرُ - بال کا لٹکنا۔

رَکَمَ رَضٍ رَکَمًا - الالف ناک
توڑ کر خون بہانا۔ صفت مفعولی۔

رَتِّيمُ وَمَرُومُ
رَتِّمَ رَسَ رَتِّمًا وَارْتَمَ - الفرسُ
گھوڑے کی ناک کے سرے پر سفید
داغ ہونا۔ صفت رَتِّمٌ۔ و

ارثمُ، مؤنث (رَقْمَةٌ - و
رَقْمَاءُ، ج رَقْمٌ -
الرَّقْمُ والرَّقْمَةُ: گھوڑے کی ناک پر
سفید داغ۔

الرَّثْمَةُ - بكن بارش. ج. رِثَامٌ.
الْمِرْثَمُ وَالْمِرْثَمُ - ناک. ج.



رَتَّيْ - لُتَّ - شَفَقَتْ اور رحم کرنا۔
رَتَّيْ يَرَّتِي رَتَّائِيَّةً - عَنْهُ حَدِيثًا -
یاد کرنا۔

رَتَّيْ يَرَّتِي - رَتَّائِيَّةً - رَتَّائِيَّةً - جَوْرًا
میں درد محسوس کرنا۔

رَتَّيْ وَتَرَّتِي - رَوَّكَ مَحْسَنٌ وَخَوِيَّانَ
شمار کرنا۔

الرَّكَاةُ وَالرَّكَايَةُ - لَوْحٌ كَرْنِ
والی عورت۔

الرَّكَايَةُ - جَوْرًا كَادِرًا - وَ
الرَّكَايَةُ - وَ السَّوْتِيَّةُ - وَ اشعار وغیرہ

جن میں میت کی خوبیاں بیان ہوں۔
ج - سَرَائِي - وَ السَّكَايَةُ -

السَّكَايَةُ - عَرَبُ كَسَاتٍ مَشْهُورَةٍ
معروف مرثیہ۔ رَجُلٌ (مَرْثُوٌّ)

مُزَوَّرٌ عَقْلٌ وَالا -
رَجَّهْ (ن) رَجَّأ - حَرَكْتُ دِينًا - لَمَانًا -

رَجَّهْ (ن) وَرَجَّهْ رَجَّأ - بَنَانًا - حَرَكْتُ كَرْنَا -
أَرَجَّجَ - الْجَبْرُ - مَوْجَزٌ بَنَانًا - الْكَلَامُ

گفتگو کا ملتبس ہونا۔
الرَّجَّةُ - حَرَكْتُ - رَجَّهْ الْقَوْمَ -

آوازوں کا اختلاط۔
رَجَّجَ - الْغَنَاءُ وَالتَّائِسَ - مَزُورٌ وَلا غَرَّ

بِطَرِّ بَكْرِيَاں يَآ اِنْسَانَ -
أَرَجَّأ - الْمَرْ - كَامٌ كَوْمُوْخَرٌ كَرْنَا -

أَرَجَّأَتِ الْحَامِلُ - حَامِلَةٌ كَا
وقت وضع حمل قریب ہونا۔

الصَّائِدُ شَكَارَى كَا كُچھ نہ پانا۔
رَجَبٌ (ن) رَجَبًا - مِنْهُ سَفَرَانَا -

رَجَبِيَّةً بِكَلَامٍ سَيِّئٍ - كَسِيٌّ پَر
برے کلام کی تممت لگانا۔ رَجَبًا

وَرَجَبًا وَارَجَبَ - الرَّجُلُ - كَسِيٌّ
سے ڈرنا۔ کسی کی عزت کرنا۔

رَجَبٌ دَسَ - رَجَبًا - مِنْهُ - كُفْرَانًا - مَرْنَا -

رَجَبِيَّةً - دُرْنَا - بَرَا سَمَحْنَا -
رَجَبِيَّةً - دُرْنَا - تَعْظِيمٌ كَرْنَا - النَّخْلَةُ -

کھجور کا درخت کمزور ہونے کے سبب
اس کے نیچے ٹیک لگانا۔ اس کو

سہارا دینا۔ کھجور کے ارد گرد کانٹوں کی
باڑھ لگانا۔ اور اسی سے یہ مثل ہے

"أَنَا جَذُّ يُلْهَمَا الْمَحْكُوكُ وَ
عُدَّ يُلْهَمَا الْمَرْجَبُ" - مَنِيْلٌ - جَذَلُ

کی تصغیر بمعنی تنزہ۔ محکم وہ لکڑی
جس میں غارش زدہ اونٹ اپنے بدن

کو کھاتا ہے۔ عَذِيْقٌ - عَذَقُ كِي تَصْغِيرُ
ہے بمعنی کھجور۔ اور مَرْجَبُ جس میں

پھل کے بوجھ کی وجہ سے ٹیکے وغیرہ
لگا دی جائے۔ یہ اس وقت کہتے

ہیں جب اس کی رائے یا عقل سے
مصیبت دور ہو۔

رَجَبٌ - الرَّجُلُ - كَسِيٌّ كَارِجَبٍ مِیْنِ
جانور ذبح کرنا۔

تَرَجَّبَ - دُرْنَا - خَوْفٌ زَوْهٌ بَنَانًا -
الرَّجُلُ - كَسِيٌّ دُرْنَا - تَعْظِيمٌ كَرْنَا -

رَجَبٌ - قَرْمِ سَالٍ كَا سَاوَالٍ مَبِينَةٍ - ج
أَرَجَّابٌ وَرَجُوبٌ وَرَجَابٌ

رَجَبَانِ - رَجَبٌ وَشَعْبَانِ كَا دَو
میں۔

الرَّجَبِيَّةُ - كُفْرٌ كِي ٹیک - شَكَارُ كَرْنَا كَا
مَچَان یَا مَالًا -

الرَّجَبِيَّةُ - اِنْكَلِ كَا جَوْرٌ - ج - رَوَّاجِبٌ
الرَّجَابُ - آئِنَتِی - الْمَرْجَبُ

مَفْعٌ - خَوْفَنَا كَا مَعْظَمٌ -
رَجَّجَ (ف ن ص) رَجَّجْنَا وَرَجَّجَا

— الْمِيزَانُ - تَرَاوُكَا مَحْكُنَا -
الرَّائِي - رَائِي كَا غَالِبٌ آنا - ۵

کسی سے زیادہ بوجھ بھاری بھر کم اور
برود بار ہونا - ۵ - مَبِيدٌ - ۵ - مَاتَحٌ

میں لکیر کسی کے بوجھ کا اندازہ لگانا۔

رَجَّجَا - رَجَّجَا - حَلِيمٌ وَرَدَّ بَارَ بَنَانًا -
بوجھل ہونا۔

رَجَّجَا - وَارَجَّجَا - مَحْكُنَا - بوجھل
کرنا۔ رَجَّجَ وَارَجَّجَ لَكَا - كَسِيٌّ

کو جھکتا ہوا دینا۔
رَجَّجَا - مَحْكُنَا - مَحْكُنَا - مَحْكُنَا -

مَحْكُنَا - رَجَّجَا - الرَّائِي عِنْدَهُ - رَائِي كَا
غالب ہونا۔ فی الْقَوْلِ - مَالٌ

بَنَانًا - الشَّيْءُ - لَمَانًا - الرَّجُوحَةُ
بلہ - جھولے کا جھکنا۔

الرَّجَّجَا - فِي الرَّجُوحَةِ - جھولے میں
جھولنا۔ الْاِبْلُ - آہستہ دوڑنے

میں اونٹوں کا بلنا۔
الرَّجَّجُ - مِنَ الْخَفَانِ - بھرے ہوئے

بڑے پیالے - مِنَ الْكِتَابِ
شکر جوار۔

الرَّجَّجُوحَةُ - ج - الرَّجَّجُوحَةُ - وَر
الرَّجَّجَا وَالرَّجَّجَا - جھولا۔

الرَّجَّجُوحَةُ - بَنَانًا - آہستہ قدم دوڑنے
میں اونٹوں کی جنبش۔

رَجَّجَا (ن) رَجَّجَا - غَلَّةٌ كِي بَالِيوں كُو
کھلیان کی طرف لے جانا۔ صَفَتْ

(رَجَّجَا)
رَجَّجَا رَجَّجَا وَرَجَّجَا وَرَجَّجَا -

کَانِیْنَا -
رَجَّجَا - بے آرام ہونا۔ مَحْكُنَا -


رَجَّجَا - حَرَكْتُ دِينًا - الْمَاءُ -
کھود کر پانی نکالنا۔

تَرَجَّجَا - حَرَكْتُ كَرْنَا - بے قرار ہونا۔
کَانِیْنَا - الشَّيْءُ فِي تَحْلِيلِهِ - چیز کا اپنی

جگہ آنا جانا۔
الرَّجَّجُوحَةُ - بے قرار۔ بے آرام۔ متحرک۔

الرَّجَّجُوحَةُ - اِنْكَلِ كَا جَوْرٌ - ج - رَوَّاجِبٌ
الرَّجَّجُوحَةُ - اِنْكَلِ كَا جَوْرٌ - ج - رَوَّاجِبٌ

الرَّجَّجُوحَةُ - حَوْضٌ مِیْنِ كَدَلِ پَانِی كَا لَبْقِیَہ



مصیبت میں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ کتنا۔ الْحَمَامُ فی غَنَائِہِ۔ کبوتری کا گنگنا۔

الْمَرْجِعُ۔ مص خط کا جواب۔ بارش کے بعد بارش۔ نفع۔ موسم بہار کی سبزی۔ تالاب۔ ج۔ رَجَاعٌ وَرَجْعَانٌ وَرَجْعَانٌ۔ الرَّجْعُ۔ گوبر۔ مِنَ الارض۔ زمین کا وہ حصہ جس میں سیلاب دور تک پھیلا ہو۔ مِنَ الْکِتِفِ۔ مونڈھے کا پچھلا حصہ۔ رَجَعُ الصَّیْدِ آواز باز گشت۔

الرَّجِیْعُ۔ من الکلام۔ واپس کیا ہوا کلام۔ گوبر۔ لید۔ تالاب۔ موسم بہار کی نبات۔ اونٹ کی جگالی۔ ہرواپس کی ہوئی شے۔ بوسیدہ کپڑا۔ پسینہ دوبارہ گرم کیا ہوا ٹھنڈا کھانا۔ بَعِیْرٌ رَجِیْعٌ۔ سفر سے تھکا ماندہ اونٹ۔ اسی طرح نَاقَةٌ رَجِیْعَةٌ ج۔ رَجَائِعُ۔ ذَابَّةٌ رَجِیْعٌ اَسْفَارِہ۔ وہ چوپایہ جو سفر میں بار بار آیا گیا ہو۔

الرَّاجِعُ۔ فَا۔ شوہر کے مرنے کے بعد اپنے میکے میں جانے والی عورت۔ ج۔ رَدَّ رَاجِعٌ۔

الرَّجْعَةُ۔ واپسی۔ الرَّجْعَةُ وَالرَّجْعِيُّ وَالرَّجْعَانُ وَالرَّجُوعَةُ۔ خط کا جواب۔

الْمَرْجِعُ۔ واپسی۔ کندھے کے نیچے کا حصہ الْمَرْجُومُ وَالْمَرْجُوعَةُ۔ خط کا جواب گوونے کے نشانات جو دوبارہ تازہ کیے گئے ہوں۔ ج۔ مَرَّ رَجِیْعٌ۔ کہا جاتا ہے "لَیْسَ لِهَذَا الْبَیْعِ مَرْجُوعٌ" یعنی اس بیع میں واپسی نہ ہوگی۔

رَجَعَهُ دَن رَجَفًا وَرَجَفَانًا وَرَجُوفًا۔

وَرَجِیْفًا۔ زور سے حرکت دینا۔

الرجلُ۔ سوت بے چین ہونا۔

کسی خوف کی بنا پر بے کل ہونا۔

الارضُ۔ زمین کا زلزلہ میں آنا۔

القومُ۔ قوم کا جنگ کے لیے تیار ہونا۔

الرجعُ۔ رد کا گڑ گڑانا۔

الاسنانُ۔ دانتوں کا گرنا۔

أَرْجَفَ۔ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے بری خبروں کو اڑانا۔

القومُ بالشئِ وفیہ۔ گھسنا۔

الریحُ الشجرُ۔ ہوا کا درخت کو ہلا دینا۔

أَرْجَفَتْ وَأَرْجَفَتْ الارضُ۔ زمین میں زلزلہ آنا۔

بھونچال آنا۔

تَرَجَّفَ وَارْتَجَفَ۔ سخت کانپنا۔

استَرْجَفَ۔ راستہ۔ سر ہلانا۔

الرَّجْفَةُ۔ بھونچال۔ زلزلہ۔ صدمہ۔

الرَّاجِعُ۔ فَا۔ جوڑی کا بخار۔ جارے سے آنے والا بخار۔

الرَّاجِفَةُ۔ قیامت کے دن صور کی پہلی بھونک۔

الارَاجِیْفُ۔ بناوٹی جھوٹی خبریں۔

کہتے ہیں: إِذَا وَقَعَتِ الْمَخَاوِیْفُ کَثُرَتِ الْارَاجِیْفُ۔

خطروں کے زمانہ میں جھوٹی لغو خبریں زیادہ اڑتی ہیں۔

رَجَلَ دَن رَجَلًا۔ الْفَصِیْلُ۔

اونٹ کے بچہ کو ماں کا دودھ پینے کے لیے آزاد چھوڑ دینا۔

الشَّاةُ۔ بکری کی ٹانگیں باندھنا۔ رَجَلَهُ۔

ٹانگ پر مارنا۔

رَجَلَ دَس رَجَلًا۔ پیدل چلنا۔

ٹانگ میں کوئی تکلیف لاحق ہونا۔

الدَّابَّةُ۔ جانور کا ایک ٹانگ میں سفیدی والا ہونا۔

الشَّعْرُ۔ بالوں کا کچھ گھنگھریالے ہونا۔

الْفَصِیْلُ۔ اونٹ کے بچہ کا ماں کا

دودھ پینے کے لیے آزاد چھوڑنا۔

رَجَلَهُ۔ مضبوط کرنا۔ تسلی دینا۔ بالوں میں کنگھی کرنا۔

أَرْجَلَهُ۔ مہلت دینا۔ پیدل چلانا۔

الْفَصِیْلُ۔ اونٹ کے بچہ کو اس کی ماں کے ساتھ دودھ کے لیے آزاد چھوڑنا۔

تَرَجَّجَل۔ سواری سے اتر کر پیادہ چلنا۔

المرأة۔ عورت کا مرد کی طرح بننا۔

الشمسُ۔ سورج کا بلند اٹھنا۔

البتُّروفی البتُّوفی بغیر رسی وغیرہ لٹکائے ہوئے کنویں میں اترنا۔

الزَّند۔ پاؤں کے نیچے رکھنا۔

أَتَجَلَ۔ دیکھی میں پکانا۔

الشَّاةُ۔ بکری کا پاؤں باندھنا۔

الزَّند۔ پاؤں کے نیچے رکھنا۔

الکلاء فی البیدِ یُجَعَتِ۔ فی البیدِ کتنا۔

بَدَّ اِیَّہ۔ اپنی رائے میں منفرد و تنہا ہونا۔

الرجلُ۔ پیدل چلنا۔

النَّهَّاسُ۔ دن پڑھنا۔

الفرسُ۔ دو رفتاروں کے درمیان گھوڑے کا آرام لینا۔

الرجلُ۔ مص۔ پیدل چلنے والا۔

شَعَرَ رَجُلٌ۔ کچھ گھنگھریالے بال۔

الرجلُ۔ ج۔ أَرْجُلٌ۔ پاؤں۔ ج۔

أَرْجَالٌ۔ کسی چیز کا حصہ۔ ٹڈی دل۔

کہتے ہیں: جَاءَتْ رَجُلٌ دَفَاعٌ۔

بہت بڑا شکر آیا۔ عمدہ زمانہ۔

کہتے ہیں: کَانَ ذَٰلِكَ فِی رَجُلٍ فُلَانٍ۔

یعنی یہ اس کے عمدہ اور حین حیات میں تھا۔

الرجلُ۔ پانچواں۔ سفید سادہ کاغذ۔ فقیری

محتاجی۔ آدمی کا پاخانہ۔ بہت سونے



والا آدمی۔ خوف۔ کتے ہیں۔ اَنَا
مِنْ اَمْرِى عَلَى رَجُلٍ میں اپنے
امر کے فوت ہونے سے خائف ہوں
پیش قدمی۔ رَجُلُ الْبَحْرِ۔ کھائی
۔ رَجُلًا السَّهْمِ تیر کے ہر دو طرف
۔ رَجُلُ الْغَدَابِ وِ رَجُلٍ
الْجَوَادِ۔ دونبات ہیں۔ رَجُلُ
الْجَبَارِ وِ رَجُلُ الْجَوْدَاءِ اور
رَجُلٌ قَتْلُورَسٌ ستاروں کے
نام ہیں۔ کتے ہیں۔ هُوَ يَقْدِمُ
رَجُلًا وَيُؤَخِّرُ اُخْرٰى کسی امر میں
متردد ہونا۔ پس و پیش کرنا۔
الرَّجُلُ۔ مرد پیدل چلنے والا۔ ج۔ رَجَالٌ
وَرَجَلَةٌ وَرَجْلَةٌ وَاَرَا جُلُ
وَرَجَلَاتٌ۔
الرَّجُلُ۔ مص۔ مِنَ الشَّعْرِ
کم گنگھریالے بال۔ ج۔ اَرَجَالٌ وِ
رَجَالِي۔
الرَّاجِلُ۔ فا۔ پیدل چلنے والا۔ ج۔
مَجْلٌ وِرَجَالَةٌ وِرَجَالٌ وِ
رَجَالٌ وِرَجَالِي وِرَجَالِي وِ
رَجُلَانِ۔ کتے ہیں۔ جَاءَتْ
الْخَيْالَةُ وَالرَّجَالَةُ سوارو
پیادے سب کے سب آئے۔ وَاَعَارَ
عَلَيْهِمْ بِخَيْلِهِ وِرَجْلِهِ اس
نے اپنے سواروں اور پیادوں سے
لوٹ ڈالی۔
الرَّجْلَةُ خُزْفُ كَاسَاك۔ خُزْفُ كَاسَاك
کے اُگنے کی جگہ۔
الرَّجْلَةُ۔ چلنے کی طاقت۔ مردانگی۔ جانور
کے ایک ٹانگ کی سفیدی۔
الرَّجْلَةُ۔ عورت۔
الرَّجِيلُ۔ ج۔ اَرَجْلَةٌ وَاَرَا جُلُ
وَاَرَا جِيلُ۔ پیدل چلنے والا۔
ج۔ رَجُلِي وِرَجَالِي وِرَجَالِي۔

زیادہ چلنے پر قدرت رکھنے والا۔
كَلَامٌ رَجِيلٌ۔ فی البدیہہ کلام۔
رَجُلٌ رَجِيلٌ۔ سخت مضبوط آدمی۔
۔ مَكَانٌ رَجِيلٌ۔ وہ جگہ جس کے
دونوں طرف دور ہوں۔ فرس
رجیل۔ رام۔ سدھا ہوا گھوڑا۔ جس
کو پسینہ نہ آئے۔
الرَّاجِيلُ۔ شکاری لوگ۔
الرَّجُولَةُ۔ والرَّجُولِيَّةُ۔ وِ
الرَّجُولِيَّةُ وِ الرَّجُولِيَّةُ۔
مردانگی۔ مردمی۔
الرَّجْلَانِ۔ پیادہ۔ ج۔ رَجَالِي وِ
رَجَالِي وِرَجَلِي۔ مَوْنَت۔ رَجُلِي
ج۔ رَجَالٌ وِرَجَالِي۔
الرَّجْلُ مِنَ الدَّوَابِّ۔ ایک ٹانگ
میں سفیدی رکھنے والا جانور۔
رَجُلٌ اَرَجَلٌ۔ بڑے پاؤں والا
آدمی۔ مَوْنَت۔ رَجْلَاءُ۔ ج۔ رَجُلٌ
کتے ہیں۔ هُوَ اَرَجْلُهُمْ وہ
مردانگی میں سب سے زیادہ کامل ہے۔
الرَّجِيلُ۔ جانور کے ایک پاؤں کی
سفیدی۔
الرَّجْلُ۔ دیکھی۔ کنگھی۔ ج۔ مَوَاجِلُ
الرَّجْلُ۔ مِنَ النَّسِيْبِ وِ نَحْوِهِ۔
وہ کپڑا وغیرہ جس پر آدمیوں کی تصویریں
منقش ہوں۔ شراب سے بھری
ہوئی مشک۔
رَجْمًا (ن) رَجْمًا۔ پتھروں سے مارنا
سنگسار کرنا۔ لعنت کرنا۔ گالی
دینا۔ چھوڑنا۔ دھتکارنا۔ ہٹکانا۔
۔ الْقَبْرِ۔ قبر پر کتبہ نصب کرنا
نشان کا پتھر لگانا۔ الرَّجُلُ
گمان سے بات کرنا۔ يَرْجُمُ
وہ دوڑتا ہوا آیا۔ رَجْمًا اُكْل
سے بات کرنا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔

بے جانے بوجھے بات کرنا۔ الْقَبْرِ
قبر پر نشان کا پتھر نصب کرنا۔
رَجْمًا مَرَّاجَةً۔ ایک دوسرے کو
پتھروں سے مارنا۔ عَنْ قَوْمِهِ۔
اپنی قوم کی حفاظت کرنا۔ كَا
فِي الْحَرْبِ اِذَا لَكَلَامٌ اِذَا الْعَدُوْ
لِطَائِي يَا كَفْتُ كَوِيَادُوْرُنِي فِي سَخْتِ
مقابلہ کرنا۔
تَرَا جَمُوا۔ ایک دوسرے پر پتھراؤ کرنا۔
پتھر برسانا۔ بِالْكَلَامِ۔ ایک
دوسرے کے ساتھ کالم گلوچ کرنا۔
رَجْمًا۔ الشَّيْءُ۔ تہ بہ تہ ہونا۔ ڈھیر
لگنا۔
الرَّجْمُ۔ مص۔ دوست۔ ہم جلس و
ہم نشیں۔ جس سے رجم کیا جائے۔
ج۔ رَجُومٌ۔ الرَّجْمُ نَفْيٌ
بات۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ اُكْل
پتھر۔ صَارَ فُلَانٌ رَجْمًا۔ اس
کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتی۔
الرَّجْمُ۔ کنواں۔ بتور۔ قبر۔ ج۔ رَجَامٌ
الرَّجْمُ۔ شاہی۔ قبروں کے نشان کے
پتھر۔ مفرد۔ (رَجْمًا)
الرَّجْمَةُ۔ وِ الرَّجْمَةُ۔ بھجوا کا بھٹ۔
قبر۔ قبر پر نشان کے لیے گاڑا ہوا پتھر۔
ج۔ رَجْمٌ وِرَجَامٌ۔
الرَّجِيمُ۔ رجم کیا ہوا۔ ملعون۔
الرَّجَامُ۔ کنویں کی من۔ کنویں کا دھانہ۔
جس پر ڈول وغیرہ ڈالنے کے لیے
گڑا گڑھی نصب ہوتی ہے۔ پتھر وغیرہ
جورسی میں باندھ کر گہرائی معلوم کرنے
کے لیے پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ واحد
رَجْمَةٌ۔
الرَّجَامَانِ۔ کنویں کے دہانے پر دو
لکڑیاں، جن پر گڑ گڑھی یا چرخی نصب
کی جاتی ہے۔



الْبَرِّ رَجَبٌ - مِنَ الرِّجَالِ - مضبوط آدمی - فرس مَرَجَمٌ - سخت دوڑ کا گھوڑا - حَدِيثٌ مَرَجَمٌ وہ بات جس کی حقیقت نہ کھلے۔
 الْمَرْجَامُ - گویا مضبوط اونٹ۔
 الْمَرْجَحُ - نازیا و قبیح گفتگو۔
 رَجَنَ (ن)، دَرَجَنَ (س)، وَرَجَنَ (ك) - رَجُونًا بِالْمَكَانِ - کسی جگہ رہنا۔
 اقامت کرنا - الْحَيَوَانُ - جانور کا گھروں میں بل جانا۔ مائوس و مائوس ہونا۔
 رَجَنَ (ن)، دَرَجَنًا وَرَجَنَ وَرَجَنَ - الدَّابَّةُ جانور کو چارہ کے لیے گھریں رو کے رکھنا - رَجَنَ فَلَانًا - کسی سے شرم و حیا کرنا۔
 ارْتَجَنَ - بِالْمَكَانِ - اقامت کرنا۔
 الزَّبْدُ مکمن کا پکانے سے صاف نہ ہونا اور بگڑ جانا - عَلَى الْقَوْمِ أَمْرُهُمْ - قوم پر ان کے کام کا پیچیدہ و گڑبڑ ہونا۔
 الرَّجِيمُ - ہم قاتل۔
 الرَّجِيئَةُ - جماعت۔
 الْمَرْجُونَةُ - ٹوکرا - کہتے ہیں "ہُمُ فِي مَرْجُونَةٍ" وہ اسی سش و سش میں ہیں کہ ٹھہریں یا کوچ کر جائیں۔
 رَجَهَ (مَن) رَجَهًا - ہلنا - بِالْشَيْءِ - کسی شے کو ماتوں سے ہٹانا۔
 رَجَهَ - الْأَمْرَ - کسی کام کو اس کے وقت سے پیچھے ڈالنا۔
 رَجَادَن، رَجَاءُ وَرَجْوًا وَرَجَاةً وَ مَرَجَاةً وَرَجَاوَةً وَرَجَاءَةً - امیدوار رہنا - الشَّيْءِ - امید کرنا۔ خوف کرنا - الْوَجَلُ - کسی سے امید باندھنا۔
 رَجِيَّ (س)، رَجَا - کلام سے رکا۔

رُجِيَّ - عَلَيْهِ - کلام کا بند ہو جانا۔
 دَرَجِيٌّ وَتَدَرَجِيٌّ وَارْتَجِيٌّ - الشَّيْءُ - امید کرنا۔ دَرَجِيٌّ وَارْتَجِيٌّ فَلَانًا۔ کسی سے امید لگانا۔ وَارْتَجِيٌّ الشَّيْءُ - ڈرنا۔
 آرَجِيَّ - الْأَمْرَ - مؤخر کرنا۔ الْصَيْدَ شکار کا کھودینا۔ نہ پانا۔
 الرَّجَادُ الرَّجَاءُ - کنارہ۔ طسوف۔
 ج. آرَجَاءُ - رَجْوًا بَلَدًا - کنوئیں کے دونوں کنارے۔ الرَّجَاءُ چھوٹا محل۔
 الرَّجِيئَةُ - امید کی چیز۔ کہا جاتا ہے۔ "لَيْسَ لِي فِي فَلَانٍ رَجِيئَةٌ" مجھے فلاں میں کوئی امید نہیں رہی۔
 الْأُرْجِيئَةُ - ملتوی شدہ چیز۔
 الرَّحَّةُ - کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا سانپ۔
 الرَّحْمُ - گھر کی چوڑائی۔
 الْأَرَحُ - چپے تھوول والا۔ مَوْنَت. رَحَاءُ ج. رَحْمٌ۔
 رَجَبَ (س)، رَجَبًا وَرَجَبَ (ك) رُجْبًا وَرَجَابَةً - الْمَكَانُ جگہ کا وسیع و فراخ ہونا۔ مَفْت رَحَبٌ وَرَجِيئٌ وَرَحَابٌ رَحَبٌ - الْمَكَانُ - کشادہ کرنا۔
 د - بَلَدٌ وَ مَرَجَبَةٌ - اچھا استقبال کرنا۔ خوش آمدید کہنا۔
 أَرْحَبَ - الْمَكَانُ - جگہ کا کشادہ ہونا۔ الْمَكَانُ - وسیع کرنا۔
 کہتے ہیں "أَرْحَبُ يَأْوِلُكَ" بیٹے الگ اور دور رہو۔
 تَرَحَّبَ - کشادہ ہونا۔
 الرَّحْبُ - وسیع۔ کشادہ۔ مَكَانٌ رَحِبٌ فَرَاخٌ جگہ۔ اَرْضٌ رَحِيئَةٌ - کشادہ زمین۔ رَحْبُ الصَّدْرِ - بڑے حوصلہ کا آدمی۔ بڑے دل والا

آدمی - رَحْبُ الْفَهْمِ - زیادہ عقل والا۔ رَحْبُ الْبَارِعِ أَوِ الدَّرَاحِ فَيَاضٌ - سخی۔
 الرَّحْبِيُّ - سب سے چوڑی پسلی۔
 الرَّحْبِيَّانِ بَعْلٌ سَ مَحْقٌ دُو پسیاں۔
 الرَّحْبَةُ - وَالرَّحْبَةُ - کشادہ زیادہ گھاس والی اور لوگوں کی فروگاہ زمین گھروں کے درمیان کھلی جگہ -
 مِنَ الدَّارِ - گھر کا صحن - مِنَ الْوَادِي - وادی کے ہر دو جانب پانی کے بہاؤ کی جگہیں ج. رَحَابٌ وَرَحْبٌ وَرَحَبَاتٌ وَرَحَبٌ وَرَحَبَاتٌ -
 الرَّحِيئُ - بسیار خور۔ پیٹو۔
 الرَّحَابُ - خوش آمدید۔
 دَحَابُ - کشادہ کنارے۔ زمین یا شہر کی حد۔ مَفْرُودٌ (دَرَجِيئَةُ) الرَّحْبُ - کشادگی۔ آنے والے سے خوش آمدید کے موقع پر کہا جاتا ہے۔
 مَرَجَبَايَكْ - آپ نے فراخی کو پایا۔
 دَمَرَجَبَكْ اللَّهُ وَمَسْمَلَكْ - اللہ تعالیٰ تم کو کشادہ اور نرم زمین میں اتارے۔
 اَهْلًا وَمَرَجَبًا - یعنی تم اپنے اہل میں آئے۔ تم نے کشادگی پائی۔ لَمَزَادَلْ لَكَوْ اور نہ گھراؤ بددعا کے موقع پر کہتے ہیں۔ "لَا مَرَجَبَايَكْ"۔
 دَحَرَحَ - مقصد کی تہ تک نہ پہنچنا۔
 الشَّيْءُ عَنْ فَلَانٍ - کسی سے کچھ چھپانا۔ بِالْكَلَامِ - غیرواضح کلام کرنا۔
 تَرَحَّرَحَ - گھوڑے کا پیشاب کرنے کے لیے ٹانگوں کو چیرنا۔
 الْوَحْرُحُ وَالرَّحْرَاحُ وَالرَّحْرَحَانُ - پوڑا کشادہ کم گرائی والا۔ عَيْشٌ



رَحْوَحٌ وَرَحْرَاحٌ: فسران و
 آسودہ زندگی۔
 رَحَضَ (ف) رَحَضًا: الثوب: کپڑا
 دھونا۔
 رَحِضَ المَحْمُومُ: بخار والے کو
 پسینہ آنا۔
 ارْتَحَضَ: الرجلُ: رُسا ہونا۔
 شرمندہ ہونا۔
 الرِّحَاضُ: بخار کے بعد پسینہ۔
 الرِّحَاضَةُ: دھوون۔ وہ پانی جو دھونے
 کے بعد گرے۔
 الرِّحَضَاءُ: بخار کے اترنے وقت کا پسینہ۔
 بدن کو شربور کرنے والا پسینہ۔
 الرِّجِيضُ: دھویا ہوا۔
 المِرْحَاضُ: غسل خانہ۔ دھونے کی جگہ
 وہ لکڑی جس سے کپڑا کوٹ کر دھویا جاتا
 ہے۔ کپڑا دھونے کی موگڑی۔ پائخانہ
 ج۔ مِرَاجِيضُ۔
 المِرْحَضَةُ وَالْمِرْحَاضَةُ: وہ برتن
 جس میں وضو کیا جائے۔
 الرِّحَاقُ وَالرِّجِيْقُ: شراب۔
 حَسْبُ رَجِيْقٍ: بے کھوٹ حسب
 — مِسْلُ رَجِيْقٍ: خالص مشک
 رَحَلْ (ف) رَحَلًا وَرَجِيْلًا وَ
 تَرَحَّالًا: عَنِ الْمَكَانِ: وطن
 چھوڑنا۔ اِلَى الْمَكَانِ: کسی جگہ
 منتقل ہونا۔ البَعِيْرُ: اونٹ کی
 پیٹھ پر کجاوہ باندھنا۔ سوار ہونا۔
 کہتے ہیں: رَحَلْتُ لَكَ نَفْسِي
 میں نے اس کی اذیت پر صبر کرنا۔
 هُ بِالنَّشِيْفِ: کسی پر تلوار اٹھانا۔
 — الْبِلَادَ: ملک میں چکر لگانا۔
 ادھر ادھر پھرنا۔
 رَحَلَهُ: کوچ کرنا۔ کوچ کرنے میں
 کوشش کرنا۔ الثَّوْبُ: کپڑے

پر نقش و نگار کرنا۔
 رَحَلًا: کوچ کرنے میں مدد دینا۔
 ارْحَلْ: سواری کے جانور بکثرت رکھنا
 — الدَّابَّةُ: جانور کا قوی پشت
 اور لاغری کے بعد فریب ہو کر سفر کے
 قابل ہونا۔ کسی کو سواری دینا
 — الْاِبِلُ اَوْ النَّاَقَةُ: اونٹ
 یا اونٹنی کو سواری کے لیے سدھانا۔
 تَرَحَّلَ: الْقَوْمُ عَنِ الْمَكَانِ: کسی
 جگہ سے منتقل ہو جانا۔ فَلَانًا
 کسی کے ساتھ تا پسندیدگی سے
 پیش آنا۔
 ارْتَحَلَ: عَنِ الْمَكَانِ: کسی جگہ
 سے منتقل ہونا۔ کوچ کرنا۔
 الْبَعِيْرُ: اونٹ پر کجاوہ کسنا۔
 سوار ہونا۔ الْاَمْرُ: کسی امر پر
 قابو پانا۔
 اسْتَرَحَلَهُ: سواری کے لیے جانور مانگنا
 سواری پر پالان ڈالنے کے لیے کہنا
 خود کو کسی کے سامنے ذلیل کرنا۔
 الْوَحْلُ: مص۔ کجاوہ۔ پالان۔ منزل
 قیام گاہ۔ سفر میں ساتھ رہنے والا
 سامان۔ کہتے ہیں: حَظَرَحَلَهُ
 وَاقْلَى رَحْلَهُ: یعنی فلان رہ پڑا
 اور اقامت گزین ہوا۔ جَرَحَلَ
 وَارْحَلَ حِرَهَ کے بنے ہوئے
 غالیچے۔
 الْوَحْلَةُ: کوچ۔ سفر نامہ۔
 الْوَحْلَةُ: جہت سفر۔ سفر۔ عَالِمُ
 رَحْلَةٍ: وہ عالم جس کی طرف لوگ
 کوچ کر کے آئیں۔ بَعِيْرُ ذُو
 رَحْلَةٍ وَرَحْلَةٍ: قوی مضبوط
 اونٹ
 الْوَحْلِيلُ: کوچ، وہ اونٹ جس پر پالان
 کسا ہوا ہو۔

الْوَحْلِيلُ: فا۔ ج۔ رَاجِلُونَ وَرَحَّلُ
 وَرَحَالُ۔
 الْوَحْلَةُ: سواری کے لائق اونٹ
 سفر و بار برداری کے لیے طاقت ور
 اونٹ یا اونٹنی۔ (مذکر و مؤنث ہر دو
 کے لیے) تا مبالغہ کی ہے۔ ج۔
 رَوَّاجِلُ۔
 الرِّحَالَةُ: چمڑے کا زین جس میں لکڑی
 نہ لگی ہو۔ ج۔ رَحَائِلُ۔
 الْارْحَلُ: سفید پشت گھوڑا یا کبری۔
 الْوَحَّالُ: کجاوہ بنانے والا۔ بہت سفر
 کرنے والا۔
 الرِّحَالَةُ: بہت سفر کرنے والا۔
 الْوَحُولُ: کجاوہ۔
 الْمَرْحَلَةُ: اس قدر مسافت جس کو
 مسافر ایک دن میں طے کرے۔ مسافر
 کے ایک دن کا سفر۔ ج۔ مَرَّاجِلُ۔
 الْمَرْحَلُ: بہت سے سواری کے جانور
 رکھنے والا۔ (سوالی مَرْحَلُ) مِنْ
 الْجَمَالِ: مضبوط قوی اونٹ۔
 رَحْمَةُ رَحْمَةٍ وَمَرْحَمَةٌ وَرَحْمًا
 وَرَحْمًا: ترس کھانا۔ رحم دل ہونا۔
 مہربانی اور شفقت کرنا۔ معاف کرنا۔
 مغفرت کرنا۔
 رَحِمَتْ (س) وَرَحِمَتْ (ك)
 رَحْمًا وَرَحْمًا وَرَحَامَةً وَ
 رَحِمَتْ: الْمَرْأَةُ: ولادت
 کے بعد عورت کے رحم میں شکایت پیدا
 ہو جانا۔ صفت (رَحْوَمٌ وَرَحِيْمَةٌ
 وَرَحِيْمًا)
 رَحِمَ وَتَرَخَمَ: علیہ۔ رَحِمَهُ
 اللہ کہنا
 تَرَاحَمَ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے پر
 رحم کرنا۔ ترس کھانا۔
 اسْتَرَحَمَهُ: مہربانی کی التجا کرنا۔

اِسْتَرْخَصَ - الشَّيْءُ كَيْسَ شَيْءٍ كُوسْتَا
سمجھنا۔

الرُّخْصَةُ وَالرُّخْصَةُ تَخْفِيفُ۔

آسانی۔ پیسے کی باری۔ مَوْتُ

رَخِصٌ۔ جلد آنے والی موت۔

رَخَفَ (ن) رَخْفًا وَرَخَفَ (س)

رَخْفًا وَرَخَفَ (ك) رَخَافَةً

وَرُخُوفَةً۔ العَجِينُ گندھے

ہوئے آٹے کا ڈھیلا ہونا۔ صفت۔

(رَخَفَ وَرَخَفَ)

أَرْخَفَ۔ العَجِينُ آٹے کو پتلا کرنا۔

آٹے میں پانی زیادہ کرنا۔

الرَّخْفُ وَالرَّخْفَةُ۔ پتلا کھن۔ پتلا

آٹا۔ ج۔ رَخَافٌ۔

الرَّخْفَةُ وَالرَّخْفُ۔ نرم پتلا پتھر۔

الرَّخْلُ وَالرَّخْلُ۔ الرَّخْلَةُ بَهِيمٌ

کامادہ بچہ۔ ج۔ أَرْخَلَ وَرَخَلَ

وَرَخَلَ وَرَخَلَ وَرَخَلَ

الرَّخْلُ بَهِيمٌ کے مادہ بچہ بہت رکھنے والا۔

رَخِمَ (ن) رَخْمًا وَرَخِمَ رَخَامَةً

۔ الصوتُ اَوَالَهُ۔ آواز

یا کلام کا باریک و نرم ہونا۔ صفت

وَرَخِمَ (ج) الجَارِيَةُ نرم کلام والی

ہونا۔ صفت (رَخِمَةً وَرَخِيمًا)

رَخِمَتْ (ن) رَخْمًا وَرَخِمًا۔ و

رَخِمَةً۔ الدَّجَاجَةُ الْبَيْضُ

وَعَلَى الْبَيْضِ وَارْخَمَتْ عَلَى

الْبَيْضِ۔ مرغی کا انڈے سینا۔

صفت (رَخِمَ وَرَخِمَ وَرَخِمَ)

رَخِمَتْ (ن) رَخْمًا وَرَخِمًا

وَرَخِمَةً۔ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا

کھلنا۔ لاڈ پانا کرنا۔ وَرَخِمَةً

رغم و مہربانی کرنا۔

رَخِمَ تَرْخِيمًا۔ الشَّيْءُ دُم کا ٹنا۔

آمیزش کرنا۔

رَخِمَ (ن) رَخْمًا۔ العَجِينُ گندھے

ہونے آٹے میں پانی زیادہ ہونا۔

أَرْخِمَ۔ فی الامر۔ مبالغہ کرنا۔ العَجِينُ

گندھے ہوئے آٹے میں پانی زائد کر دینا۔

أَرْخِمَ۔ الرجلُ۔ ڈھیلا ہونا۔

مضطرب ہونا۔

الرَّخْمُ۔ سولت و نرمی۔

الرَّخْمُ۔ ایک خیالی بڑا جانور۔ واحد

رُخْمَةٌ شَطْرُكَ کا ایک ٹھہرہ۔

ج۔ رَخَامٌ وَرَخْمَةٌ۔

عَلِيشَ رَخَامٌ۔ زندگی کی آسودگی

و فراخی۔ اَرْضُ رَخَامٌ

نرم زمین۔

الرَّخِيْتُ۔ زین۔ ج۔ رُخُوتٌ۔

الرَّخُوذُ وَالرَّخُوذُ۔ پتلا گارا۔

تَرْخَشُ وَارْتَخَشُ۔ مضطرب ہونا۔

الرَّخِشَةُ۔ اضطراب۔

رَخَصَ (ك) رَخَصًا۔ الشَّيْءُ چیز

کا ستا ہونا۔ صفت (رَخِصٌ)

(رَخَصَ وَرَخَصَ)

نرم و نازک ہونا۔ صفت (رَخِصٌ)

وَرَخِصٌ مَوْنٌ۔ رَخِصَةٌ

ج۔ رَخَايُصٌ۔

رَخِصٌ۔ السَّعَرُ۔ بھاؤ مندا کرنا بھاؤ

گھٹانا۔ لہ کذا و فی کذا۔

ممانعت کے بعد اجازت و رخصت

دینا۔

أَرْخَصَ۔ ستا کرنا۔ ستا پانا یا

خریدنا۔

تَخَخَصَ۔ فی الامر۔ کسی امر میں رخصت

پر عمل کرنا۔ فی کذا۔ اجازت

دیا جانا۔ اپنے حق میں سے جو ممکن ہو

لینا۔ پورا نہ لینا۔

أَرْخَصَ۔ ستا جانا۔ یا خریدنا۔

الرَّحِمُ وَالرَّحْمُ۔ مَوْنٌ۔ بچہ دانی۔

رشتہ داری۔ ذوالرَّحِمِ۔

قربت والا۔ رشتہ دار۔ ج۔

أَرْحَامٌ۔

الرَّحَامُ۔ رحم کی ایک بیماری۔

الرَّحْمَةُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحْمَةُ۔ نرم

دلی۔ ترس۔ جوا احسان و مغفرت کا

سبب ہے۔

الرَّحْمُوتُ۔ بڑی رحمت و مہربانی۔

الرَّاحِمُ وَالرَّحْمُ۔ مہربانی کرنا والا۔

الرَّحِيمُ۔ رحم کرنے والا۔ رحم کیا ہوا۔

ج۔ رَحْمَاءُ۔ الرَّحِيمُ۔ خدا

تعالیٰ کا اسم مبارک۔

الرَّحْمَانُ۔ مہربانی کرنے والا۔ اسمائے

حسنیٰ میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی

ذات کے لیے مخصوص ہے۔

الرَّحْمَةُ۔ رحمت۔ ج۔ مَرَّاحِمُ۔

الرَّحْمُ۔ مہربانی کیا ہوا۔ و

الرَّحْمُومُ، دفات پایا ہوا۔

رَحًا۔ يَرْحُو رَحًا وَرَحًا يَرْحُو

رَحًا يَرْحُو رَحًا يَرْحُو۔ الحَيَّةُ۔ سانپ

کا کڈل مارنا۔

رَحًا الرَّحَى۔ چکی چلانا۔

الرَّحَى (مَوْنٌ) تَشْنِيهِ رَحْوَانٍ و

رَحِيَانٍ۔ ج۔ أَرْحَاءُ وَأَرْحِيَّةٌ

وَأَرْحِيَّةٌ وَأَرْحِيَّةٌ وَأَرْحِيَّةٌ

الرَّحَى۔ سینہ۔ ڈائی کا کھسان۔

سردار قوم۔ داڑھ۔ بدلی۔ وہ قبیلہ

جو نہ تو اپنی جگہ سے ٹلے اور نہ گھاس

پانی کی طلب میں کہیں جائے۔ ج۔

أَرْحَاءُ۔

الرَّحَى۔ چکی بنانے والا۔ الرَّحَى

گھسان کی لڑائی۔

رَخْلَهُ (ن) رَخْلًا۔ پاؤں سے روند کر

ڈھیلا کرنا۔ الشَّرَابُ۔ پانی کی



خلاف کام۔ درہم رد۔

کھوٹا درہم۔

الرد۔ چیز کی ٹیسی یا سہارا۔

الردی۔ طلاق دی ہوئی عورت۔

الردۃ۔ خوشروئی کے ساتھ کچھ بدروئی۔

الردۃ۔ اڑتاد۔ ٹھوڑی کا بچکنا۔

بیابان سے پہلے تھنوں کا دودھ سے

بھر جانا۔ پہاڑ کی گونج۔ شربت

الابلۃ ردۃ۔ اونٹوں نے دوسری

بار پانی پیا۔

الرداد۔ الرداد۔ واپسی۔

الردید۔ وہ بادل جو پانی برسا چکا۔

الرداد۔ رد تکرار۔

الارد۔ زیادہ نفع بخش

الوادۃ والردۃ فائدہ دہکتے ہیں۔

الرادۃ اذ لا مردۃ فیہ۔

اس میں کوئی فائدہ نہیں۔

المرد۔ فنا۔ زمانہ دراز تک سفر میں

رہنے والا۔ یا عرصہ تک بغیر بوی کے

رہنے والا۔ نارض۔ زیادہ پانی پی

جانے والا اونٹ۔ ج۔ مرداد۔

المرد۔ من الرجال۔ بہت رد کرنے

والا۔ بہت حملہ آور۔

المردود۔ مفع۔ مص۔ عرصہ تک

سفر میں رہنے والا۔ دیکھ بغیر بوی

کے رہنے والا۔

المردودۃ۔ مؤنث مردود۔ مطلقہ

عورت۔ استرا۔

المردد حیران۔

رداد، رد۔ الحائط۔ دیوار

کوٹیک لگانا۔ الرد۔ سی

کی ماد لگانا۔ رداء۔ بھجیر۔

پتھر مارنا۔

ردودک رداعۃ۔ خراب ہونا۔

صفت۔ ردی۔ ج۔ اڑ دیا۔

واردعۃ۔

ارد۔ بد کام کرنا یا بری چیز پر پہنچنا۔

ارد۔ خراب کرنا۔ المستور۔

پروہ لٹکانا۔ الحائط۔ دیوار

کو تھم لگانا۔ فلانا۔ کسی کو تسکین

دینا۔ اپنی حالت پر برقرار رکھنا۔

ارد علی ما عتہ۔ کسی کو سوسے

زیادہ دینا۔

ترادۃ۔ القوم۔ ایک دوسرے کی

مدد کرنا۔

الردۃ مددگار۔ مدد۔ بوجھ کے ایک

طرف کا بھاری حصہ جو جانور پر

لا دین۔ ج۔ ارداء۔

ترددیکہ۔ مہربانی اور ملاطفت کرنا۔

الردیف۔ غیر نافذہ گلی یا راستہ۔

الاردب۔ ۲۴ صاع کا ایک بڑا پیمانہ

جس سے غلہ وغیرہ ناپتے ہیں۔ نہر

نالی۔ ج۔ اردب۔

الاردبۃ۔ بڑی پختہ اینٹ۔ حوض

وغیرہ سے پانی نکلنے کی نالی۔

ردح (ف) ردحاً۔ برقرار رہنا

ثابت قدم رہنا۔ الشیء۔

زمین پر ہموار پھیلانا۔ (و اردح)

البیت۔ گھر کو کاڑھے گارے سے

لیپنا۔ ڈرنا۔

ردح۔ الشیء۔ زمین پر پھیل کر ہموار

کرنا۔

الردح۔ مص۔ ہلکا درد۔

الردح۔ لمبا عرصہ۔

الرداح۔ لشکر جہاز تیار کی بڑا درخت

بڑا پیالہ۔ من الکباش۔ بڑی

چکتی والا دنبہ۔ ج۔ ردح۔

الرداحۃ والرداحۃ۔ بجو کے

شکار کے لیے تیار کردہ مکان۔

المردح۔ وسعت۔

ردح (ف) ردحاً۔ راستہ۔

سرتوڑنا۔

ردح (نض) ردحاً۔ القوم۔

پتھر سے مارنا۔ الحائط۔ دیوار

کو کرنا۔ ڈھانا۔ الرجل۔ کسی

کو ذلیل کرنا۔ الارض۔ زمین کو

ہموار کرنا۔ بالشیء۔ کسی شے کو

لے جانا۔ الحجبوا الحجبوا۔ پتھر

سے پتھر کو توڑنا۔

دادسہ۔ ایک دوسرے کو پتھر سے مارنا

تردس۔ من صنادید۔ اپنی جگہ سے کرنا

الردس والرداس۔ پتھر توڑنے

کا ہتھوڑا۔ سر۔ وہ پتھر جو کنویں میں پانی

معلوم کرنے کے لیے ڈالا جائے۔

ردع (ف) ردعاً۔ عن کذا۔

روکنا۔ بٹانا۔ کا بالشیء۔ کسی کو

کسی شے کے ساتھ لپیٹنا۔ آلودہ

کرنا۔ "أخذ فودع" بہ

الأسح۔ اس نے اس کو لے کر

زمین پر پٹک دیا۔ السهم۔ تیر

کے پھل کو بیٹھ جانے کے لیے زمین

پر مارنا۔

ردع ردعۃ۔ سم جانا اور چہرے کا

رنگ زرد پڑ جانا۔ ردع بہ۔

پچھاڑا جانا۔

ردعۃ۔ بالزعفران۔ زعفران میں

لت کرنا۔ تردع۔ لت پت

ہونا۔

ترادع۔ القوم۔ ایک دوسرے کو

باز رکھنا۔

ارتدع۔ باز رہنا۔ بالظہیب

خوشبو میں لت پت ہونا۔ السهم

تیر کا نشانہ پر لگ کر ٹوٹنا۔

الردع۔ مص۔ گردن۔ زعفران، جسم میں

خوشبو کا اثر۔



الروادف - سُرینیں پیچھے رہنے والی قوم۔

الروادفۃ بادشاہ کی نیابت
الروادفی مدکار "جاء وادافا"
وہ پہلے بود دیگرے آئے
روادکۃ آراء نہ لڑنا خوبصورت کرنا
الروادکی خوش رد لڑکا، مونث
روادکۃ

رَدِّ مَرْضَى زِدْمَا - الثَّلَاثَةُ أَوْ
الْبَاب - رَحْمَةُ يَادِرُوَاهُ لَوْ بَدَلْنَا -

القوس یسبح کرمان سے آواز نکلتا
— البعیر۔ اونٹ کے کچھ چیمبونا۔
رَدْمَدُون رَدْمَا۔ الشئ۔ ہنا۔

السحاب - بادل کا برا بڑھایا رہنا۔
 - الحثی علیہ - بخار کا ہمیشہ چڑھا
 رہنا - الشجرۃ - درخت کا خشک

ہونے کے بعد سب زہرا ہونا۔
 اَرْقَمَ السَّحَابَ - بادل کا ہمیشہ چھایا
 رہنا۔ الْحَيَّ عَلِيَّہ - بخار کا

مسل چڑھا رہنا۔
لذم۔ الثوب۔ کپڑے میں پیوند لگانا۔

— الناقۃ علی ولیدہا۔ اوتنی
کا اپنے بچہ پر مہربان ہونا۔

ثوب - ثوبہ - کپڑے میں پیوند لگانا۔
 - الثوب - کپڑے کا بوسیدہ و پرانا

کھینچ جانا۔ ۵۔ لسی کے پیچھے لگ کر اس کی حقیقت کا راز لگانا۔ المناقہ

عَلَىٰ وَلَدٍ هَآءَا اُونُسْنِي كَا اِيْنِي كِي لِي
اور مہربان ہونا — الْقَوْمُ الْأَرْضِ

قوم کا زمین کی پیداوار کو بار بار کھالینا
لورڈ۔ مص۔ گرمی ہوئی دیوار کا ملبہ۔

کمان کی آواز۔ ر۔ والِدَامُ وَ
الْمُوْدَامُ بے خیر چیز۔

الرَدِّیْمُ من شِیَابٍ - برانا کپڑا
الرَدْمُ ما یرعلج - ج - اَرْدَمُون
اَسْتَرَدَمْتُ جس جگہ پیوند لگائیں - کہتے
ہیں - هَلْ خَادَرُ الشَّعْرَاءِ مِنْ
مَنْزِلَةِ - کیا اگلے شمارنے کلام
میں کوئی (رخسہ) کمی و خامی چھوڑی ہے
کہ پچھلے اس کو پورا کر دیں؟ یعنی نہیں
برہنہ پر وہ کہ چکے ہیں اب مجال
سخن نہیں۔

رَدَن (رض) رَدَنًا - الاشیاء چیزوں
کو ترتیب سے اوپر نیچے چننا -
المرأة بخورت کانکے پر کاتنا -
الاناء آگ جلانا۔

رَدَن (س) رَدَنًا - الجِلْدُ کھال
پر جھریاں پڑنا - سَکُطًا۔

رَدَن وَاَرَدَن - القَبِیضُ کرتے
میں آستین لگانا - اَرَدَنْتِ الْجُثْثِ
بخار کا کچھ جانا - اَرَدَنْتِ الْمَرْأَةَ
عورت کا تھکنا بنانا۔

الرَدْنُ - آستین کی بڑ - آستین - شادہ
حصہ عرب اس میں درہم دینا
رکھتے تھے اس لیے محاورہ ہو گیا۔
"ثَقْلٌ رَدْنٌ" یعنی وہ مال دار ہو
گیا۔ ج - اَرْدَانُ۔

الرَدْنُ - مص - ہتھیاروں کے ایک
دوسرے پر گرنے کی آواز۔

الرَادِنُ - خَا - زعفران - اَحْمَرُ
(رَدَانِی) زردی ملا ہوا سرخ۔

الرَدْنُ - ایک سرخ رنگ ریشم۔

الرَدَّیْنِ - نیزہ - دُرْدَیْنَةُ عورت
کی طرف منسوب ہے جو اچھے نیزے
بنایا کرتی تھی۔

الرَدْنُ - تھکا۔
الرَدْنُ - تاریک - عَوَقُ رَدْنٍ
بدبودار پسینہ - حَبِطَ مَرْدُونٌ

لایا ہوا ڈورا۔
رَدَّه (ن) رَدَّهًا - فَلَانًا بِحَجَرٍ -
سنگسار کرنا - الْبَيْتُ گھر کو
بڑا کرنا - رَدَّه - الْجِلْدُ ہادری
یا سخاوت یا کسی اور خوبی کے باعث
قوم پر سرداری کرنا۔

الرَدَّهَةُ پہاڑ یا چٹان میں گرٹھا جس میں
بارش کا پانی جمع ہو جائے - سب سے
بڑا گھر - گھر کی سب سے زیادہ کشادہ
جگہ - ج - رَدَّهٌ دَرْدَاهُ رَدَّهٌ -
رَدَّی (ن) رَدَّیًا و رَدَّیَانًا -

الشَّیْءُ - تَوَلَّی - ا - دھکا دینا۔
بِحَجَرٍ - پتھر مارنا - الْفَرْسُ

گھوڑے کا زمین پر رسم مارنا - الْحَارِیَّةُ
لڑکی کا ایک پاؤں پر ایک ایک کر

چلنا - فَلَانٌ - جانا - مَا اَدْرِی
آئینہ رَدَّی - میں نہیں جانتا، وہ

کہاں گیا - فِی الْبَیْتِ - کنویں
میں گرنا - فَلَانٌ - اونچے پہاڑ

پر سے گرنا - عَلٰی الْخَمْسِیْنَ
مِائِیْنِ عُمُرٍ - اپنی عمر میں پچاس سال

سے زائد ہونا۔
رَدَّی (س) رَدَّی - ہلاک ہونا - گرنا۔
رَدَّی - الرِّجْلُ - ہلاک کرنا - پیادہ

اور ٹھکانا - کُفِی الْبَیْتِ کنویں
میں گرنا۔

رَدَّی مَرَادَاةٌ - الرِّجْلُ بھسلنا
مدارات سے پیش آنا - عَنِ

الْقَوْدِ کسی قوم کی جانب سے
دوسروں پر پتھر برسانا۔

تَرَدَّی - چادر اوڑھنا - تَرَدَّی
فِی الْبَیْتِ کنویں میں گرنا۔

اَرَدَّی - چادر اوڑھنا - تَلَوَّی لُکَّانًا -
اَرَدَّتِ الْحَارِیَّةُ لڑکی کا
ایک پاؤں پر ایک ایک کر چلنا

اور کھیلنا۔

الرَدَّاءُ - چادر - عبا - یاجُہ - جمیل تلوار
گمان، عقل، نادانی، باعثِ زینت۔
باعثِ عیب - رَدَّاءُ الشَّیْبَابِ -
جوانی کی بہار و نکھار - رَدَّاءُ
الشمسِ سورج کی روشنی - هُوَ
غَمَرُ الرَّدَاةِ - وہ بہت داؤد و ہش
والا ہے - وَخَفِیْفُ الرَّدَاةِ - کم
قرض اور کم عیال والا - ج - اَرَدَّیَّةُ
الرَّدَاةِ - پوشش، اوپر اوڑھنے کا
کپڑا۔

الرَدَّاءُ چٹان - ج - رَدَّی -
الرَدَّی - ہلاک ہونے والا۔

الرَدَّاءُ لُطَائِی کا چکر - د - اَلْمَرْدِی
بڑی پیادہ - اَزَارٌ - پتھر توڑنے کا پتھر

ج - مَرَادِی -
الرَدَّادِی گھوڑوں یا اونٹوں یا ہاتھیوں

کی ٹانگیں - زمین پر رسم مارنے والا
گھوڑا۔

الرَدَّیُّ مَلَح کا چپو - ج - مَرَادِی
رَدَّتْ (ن) رَدَّادًا وَاَرَدَّتْ -

السَّمَاءُ آسمان کا پھوار برسانا -
اَرَدَّتِ الْقَوْدِیَّةُ مُشْکٌ بہہ پڑنا۔
الرَّدَّادُ - پھوار۔

رَدَّلَ رَكٌ، و رَدَّلَ (س) رَدَّالَةً و
رَدَّالَةً - حَقَارَت کے قابل ہونا۔

قَبِیح ہونا - برا ہونا - صِفَتِ (رَدَّل) ج
اَرَدَّالٌ و رَدَّالٌ دُرْدَلٌ و

رَدَّلُونٌ و رَدَّیْلٌ ج - رَدَّلَا و رَدَّلَا
رَدَّلَ (ن) رَدَّلَا وَاَرَدَّلَا - رذیل کرنا۔

نا پسند کرنا - حَقِیر سمجھنا - برا فعل کرنا۔
کمیوں کو اپنا ساتھی بنانا - حَقِیر کرنا نا پسند

کرنا - برا سمجھنا - اَلْمَرَادِی
درابہم کو کھوٹے بتا کر واپس کر دینا۔
اَسْتَرَدَّلَ حَقِیر سمجھنا۔



الرَّذَالُ - حقیر و کمینہ (۔ والِرْدُ الْآلَةُ) چیز کا ردی و ناکارہ حصہ۔ رَذَا لَکَ کُتِبَ شَیْءٌ - ہر چیز کا ناقص حصہ۔

الرَّذِیْلَةُ - بڑائی، کمینہ بن۔ ج۔
الرَّذْلُ - اسم تفصیل، گھٹیا، ردی۔ ج۔
ارِذَالٌ وَاَرْدُلُوْنٌ -

الرَّذِیْلُ - رذیل ساتھیوں والا۔

رَذَمَ (ن ض) رَذَمًا وَاَرَذَمًا وَاَرَذَمَ (س) رَذَمًا وَاَرَذَمَ۔

الِیْتَاءُ - برتن کا بھر کر چھلک جانا

صفت (ر ذ م) - وَاَرَذَمَ

الْخَمْسِیْنَ مِنْ عُمُرِهِ - عمر میں

پچاس سے زائد ہونا۔

الرَّذَمُ وَاَلِرْدَمَانُ - مِنَ النَّاسِ

بکھری ہوئی جماعت، چھوٹی جماعت۔

الرَّذَامُ وَاَلِرْدَمُ - ضعیف یا کمزور

جس میں کوئی مروت نہ ہو۔

الرَّذْدُمُ - بننے والا۔ چھلکتا ہوا البرز پیلہ

ج۔ رَذْمٌ وَاَرَذْمٌ۔

رَذِی (س) رَذَا ذَةً وَاَرَذِی (بیاری

سے نڈھال ہونا۔ صفت (ر ذ ی)

ج۔ رَذَا ذَةً - مَوْنٌ - رَذِیَّةٌ

اَرَذَاکَ - نڈھال کر دینا۔ پھینکنا۔ صفت

مفعولی (مُ ر ذ ی)

الرَّذِیُّ - کمزور۔ دُ بَلَا۔

رَذَّتْ (ن ض) رَذَا - الْجَرَادَةُ

مڈی کا انڈے دینے کے لیے دم کو زمین

میں چبھونا - السَّمَاءُ - آسمان

کا گر جانا - نِزَہ - مارنا۔

الْبَابُ - دروازہ میں کندی لگانا۔

السَّهْمُ فِي الْحَائِطِ - تیر کو

دیوار میں گاڑنا۔

رَذَزَ - الودق - کاغذ پر پالش کرنا۔

الامو کسی امر کو ٹھیک کرنا۔

الرَّذِیَّةُ - السَّهْمُ فِي الْحَائِطِ - تیر کا

دیوار میں گاڑنا - الْبِخِیْلُ
عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ - سوال کے وقت
بخیل کا کنجوسی کرنا۔ اور دینے سے
رکنا۔

الرَّزْ - چاول۔

الرَّزْ وَاَلِرْزِی - دور کی آواز۔ پیٹ

کی گڑ گڑاہٹ۔ بادل کی گرج، آواز۔

لوسے کا کنڈا جس میں تالا لگایا

جاتا ہے۔ کھونٹی، جس کو گھوڑے دیوہ

باندھنے کے لیے زمین یا دیوار میں گاڑ

دیا جاتا ہے۔ ج۔ رَزَاوَرَزَاتٌ

وَرَزَزٌ۔

الرَّزَّةُ - پیٹھ کا درد۔ الرَّزَاذُ - سیسہ

الرَّزَاذُ - چاول بچنے والا۔ چاولوں کا

سوداگر۔

الرَّزِیْنَةُ - کپکپی، لرزہ، نشانہ میں پیوستہ

تیزہ۔ چھوٹے اولے، لمبی آواز۔

الرَّزِیْدُ - رنگ کے کام میں آنے والی

ایک قسم کی گھاس۔ رَزِیْدُ الرَّعْدِ -

گرج کی آواز۔

الرَّزَزُ - مِنَ الطَّعَامِ - چاول سے

تیار کیا ہوا کھانا

الرَّزَزَةُ - چاول اُگنے کی جگہ۔ یا وہ مقام

جہاں چاول جمع کیا جائے یا بکثرت

پیدا ہو۔

رَذَاوَرَزَا وَاَرَزَا وَاَرَزَا -

الرجل مَالَةً - کچھ حاصل کرنا۔

کم کرنا۔ کم دینا۔ هُوَ يَرَزُو - وہ

نیاض و سخی ہے۔ (۔ وَرَزَى،

رَس) رَزَا وَاَرَزَا - الرجل

کسی سے کچھ بھلائی حاصل کرنا۔

رَزَزَا الشَّیْءَ - کم کرنا۔ رَزَزَا

الشَّیْءَ - کم ہونا۔ الرُّزْءُ - ج

اَرَزَا وَاَلِرَزِیَّةُ وَاَلِرَزِیَّةُ

ج۔ رَزَا یَا۔ بڑی مصیبت۔

الرَّزَاؤُ - کریم، نیاض و سخی۔ ج۔
مُرَزُوْنٌ - المُرَزُوْنٌ - وہ
قوم جس کے چیدہ اشخاص مرچکے ہوں۔
رَزَزَ (ن) رَزَزًا - چٹے رہنا۔

الرَّزِیْبُ - چھوٹا، مضبوط۔ جھم والا۔

الرَّزِیْبَةُ - وَاَلِرَزِیْبَةُ - ج۔ مَرَايِبُ

(الرَّزِیْبَةُ) - لوسے کی سلخ۔

الرَّزَايِبُ - پر نالہ لمبی کشتی۔ ج۔ مَرَايِبُ

الرَّزَايِبُ - اہل فارس کا رئیس یا صوبہ دار

ج۔ مَرَايِبَةُ - وَاَلِرَزِیْبَةُ -

صوبیداری کا عہدہ۔

رَزَحَ (ف) رَزَحًا وَاَرَزَحًا وَاَرَزَحًا

- الْجَمَلُ - اونٹ کا لاغری یا تھکن

کی وجہ سے زمین پر گر کر دراز ہو جانا

اور نہ اٹھ سکتا۔ صفت۔ (رَزَحَ)

ج۔ رَزَحٌ - الرجل - کمزوری

کی وجہ سے ہاتھ سے چیز چھوٹ جانا۔

- الرجل بِالرُّمَحِ - کسی کو نیزہ

مارنا۔ (۔ وَاَرَزَحَ) الْعِنَبُ

گرے ہوئے انگور چٹنا۔ رَزَحَتْ

وَتَرَزَحَتْ - حالہ۔ بد حال ہونا۔

رَزَحَ - النَّاظِلَةُ - اونٹنی کو لاغر کرنا

راہل۔ رَزَا حِیٌّ وَاَرَزَا حِیٌّ وَاَرَزَا حِیٌّ

وَرَزَا حِیٌّ - کمزور لاغر اونٹ۔

الرَّزَحُ - ہموار زمین۔

الرَّزَحُ - وَاَلِرَّزَحَةُ - وہ لڑائی جس

پر انگور کی بیل رکھی جاتی ہے تاکہ وہ

زمین سے اونچی رہے۔ ج۔ مَرَايِحُ -

الرَّزَاخُ - مِنَ الْاِبِلِ - بہت لاغر

کمزور اونٹ جو حرکت نہ کر سکے۔ ج۔

مَرَايِحُ -

رَزَحَهُ (ف) رَزَحًا - بِالرُّمَحِ

نیزہ مارنا۔

الرَّزَقُ - لوگوں کی صف۔ کھجوروں کی

قطار۔

الرِّزْقُ دَاقٌ۔ دیہات اور ان کے گرد اگرد
کی زمینیں۔ جہ۔ رِزْقُ دَاقَات
وَلَدَاقِیُّ۔

أَرْزَغَ۔ الماءُ۔ پانی کا کم ہونا۔ المکان
کسی جگہ کا کچھ والی ہونا۔ الْمُحْتَقِرُ
کھودنے والے کا تری تک پہنچنا۔
المطرُ الارضُ۔ بارش کا صرف
زمین کو ترک کر دینا۔ الرجلُ کبھی
کو عیب سے آلودہ کرنا۔ رِزْقِ
فلان۔ بہت ایذا دینا۔ حقارت کرنا
عیب لگانا۔ طعن کرنا۔

رَزَغَ۔ دھوکا دینا۔ فریب دینا۔
اسْتَرْزَغَ۔ کمزور جاننا۔
الرَّزَغَةُ۔ پتلا کچھڑ۔ دلدل۔ جہ۔ رَزَغ
وَرَزَغٌ۔ الرِّزْقُ۔ رطوبت
رَزَفَ (ض) رَزِيفًا وَرَزَفَ وَارَزَفَ
— الیاء۔ آگے بڑھنا۔ الجبلُ
اونٹ کا بلبلانا۔ وِرَزْنَا۔ رَزَفَ
الامرُ۔ قریب ہونا۔ أَرَزَفَ
الناقلةُ۔ اونٹنی کو چلانا۔ أَرَزَفَ
القومُ۔ قوم کو جھٹلٹ شکست
دے دینا۔ نَاقَةُ رَزُوفٍ۔ لمبی
ٹانگوں اور کشادہ قدم رکھنے والی
اونٹنی۔

رَزَاقَاتُ۔ البلدُ۔ شہر کے قریب کی جگہیں
رَزَقَهُ (ن) رَزَقًا۔ کسی کو رزق پہنچانا
روزی دینا۔

رَزَقٌ۔ روزی پانا۔ خوش قسمت ہونا۔
ارْتَزَقَهُ کسی سے رزق طلب کرنا۔
الْجَبْدُ۔ فوج کا رسد پانا۔

اسْتَرْزَقَهُ۔ روزی مانگنا۔
الرِّزْقُ۔ روزی۔ جہ۔ أَرْسَاقُ
بارش۔ الرِّسْقُ الْحَسَنُ۔ بلا محنت
و مشقت ملنے والی روزی۔ د۔ و
الرِّزْقَةُ۔ جہ۔ رَزَقَاتُ۔ سپاہیوں

کی رسد
الرِّزَاقُ کمزور۔ ایک قسم کا لمبا سفید انگور۔
شراب۔

الرِّزَاقُ۔ روزی دینا۔ یہ صرف ذات باری
کے لیے مخصوص ہے۔
الرِّزْقُ۔ مفع، جس سے فائدہ اٹھایا
جائے۔

الرِّزْقَةُ۔ اپنی رسد پانے والے لوگ۔
الرِّزْقُ مَخْشُ بخت۔

رَزَمَ (ن) رَزَمًا۔ الشیء جمع کر کے
باندھنا۔ بالشیء۔ پکڑنا۔

عَلَى عَدَاوَةٍ۔ دشمن پر غالب آکر
اس کو دبا بیٹھنا۔ الرجلُ۔
مرنا۔ الْأَمْرُ بِلہ۔ جینا۔

رَزَمَ (ض) رَزَمًا وَرَزَمًا۔
البعيرُ۔ اونٹ کا لاغری کے باعث
اٹھ نہ سکتا۔ صفت (رَاسِ مِ)

جہ۔ رَزَمَ۔ د۔ سَزَمَةً
الشتاء۔ موسم سرما کا سرد ہونا۔

رَزَمَ۔ الثیاب۔ کپڑے جمع کر کے ان کی
گٹھڑی باندھنا۔ القومُ۔ قوم کا
کسی جگہ جم جانا اور نہ ٹلنا۔

رَزَمَ۔ بید بھٹنا۔ جمع کرنا۔ اکٹھا
کرنا۔ فی المطاعِ عجم۔ باری

باری کئی قسم کے کھانے کھانا۔ الدارُ
گھر میں بہت دیر رہنا۔

أَرَزَمَ۔ الوجدُ۔ شدت سے گرجنا
یا کڑکنا۔

أَرَزَمَتِ۔ الناقةُ۔ اونٹنی کا بچے
کے لیے آواز نکالنا۔

أَرَزَمَ أَرَزِمًا مًا۔ غضب ناک ہونا۔
الرَّزْمَةُ۔ دن میں ایک مرتبہ کھانا۔

الرَّزْمَةُ۔ کپڑوں وغیرہ کی گٹھڑی۔ جہ
رَزَمَ۔

الرَّزْمَةُ۔ بچہ کی آواز کرخت آواز

بچہ پر پیار آتے وقت منہ کھولے بغیر
اونٹنی کی حلق سے نکالی ہوئی آواز۔
کہتے ہیں۔ "لَا خَيْرَ فِي رِزْمَةٍ لَا
وَسَّاقَةٍ فِيهَا"۔ یہ اس کے حق میں کہا
جاتا ہے جو وعدہ کرے مگر اس کو پورا
کر کے نہ دکھائے۔ جو چاہوسی کرے
مگر خیر و بھلائی نہ پہنچائے۔ غیث
(دزم) وہ بارش جس کی گرج ختم
نہ ہو۔

الرِّزَامُ۔ سخت آدمی۔ جہ۔ رِزَامُ۔
الرِّزَامُ لِحْمٌ۔ شیر کی دھار، جھاگ۔

الرِّزَامُ۔ د الرِّزَامُ۔ گرجنے والا
شیر اپنے شکار پر گھومنے اور غرغرانے
والا شیر

الرِّزَامُ۔ وہ رسی وغیرہ جس سے گٹھڑی
باندھی جائے۔

رَزَنَ (ن) رَزَنَةً۔ الشیء۔ چیز کو
اٹھا کر اس کے وزن کا اندازہ کرنا۔
بالمکان۔ اقامت کرنا۔

رَزَنَ (ن) رَزَنَةً۔ سنجیدہ ہونا۔
بھاری ہونا۔ بوجھل ہونا۔ صفت (رِزْنِ)

مؤنث (رَزَانُ) رَزِينَةً نہیں
بولتا جاتا۔

رَزَنَ۔ الرجلُ۔ کسی کا دوست ہونا۔
اور ساتھ اترنا۔

تَرَزَنًا۔ ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔
تَرَزَنَ۔ فی الامرِ او فی مجلسہ۔

سنجیدہ اور پکی رائے والا ہونا۔
الرِّزْنُ والرِّزْنُ۔ وہ بلند جگہ جس میں

پانی رکنے کے لیے نشیب ہو۔ جہ۔
رِزْنٌ وَرِزْنَانٌ وَآرِزْنَانٌ۔

الرِّزْنُ۔ کمنارہ۔
الرِّزْنَةُ۔ پانی رسنے کی جگہ۔ دلدلی زمین۔
جہ۔ رِزْنَانٌ۔

الْأَرِزْنَةُ۔ سخت کڑی والا ایک درخت،



جس سے چھڑیاں بناتے ہیں۔
 الرّسّٰیْن ساکن، پختہ رائے والا۔
 الرّوْدْنَةُ روشن دان، جہ، رَوَازِنُ۔
 رَزْی (ض) رَزْیَا۔ فلاں کسی کا احسان قبول کرنا۔
 اَرَزْی اِرْزَا۔ الیہ۔ وَاَرَزْی الیہ ظہر کا سارا لینا، پناہ لینا۔
 رَس (ن) رَسَا۔ البئر کنواں کھودنا۔
 الشیء دھنسانا۔ لَہُ الخَبَر خبر بیان کرنا۔ المَیّت میت کو دفن کرنا۔ خَبَرَهُمْ خبر معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔
 بَیْنَهُمْ صلح کرنا، فساد ڈالنا۔
 (ض) رَسَا و رَسِیْنَا وَاَرَسَ السَّقْفُ فی جَسَدِہ۔ بیماری کا کسی کے جسم میں اثر جھالینا۔
 رَاسَتَ مَرَّاسَتًا۔ بالامر کام مل کر شروع کرنا۔
 تَدَاسَ۔ القوم الخَبَر۔ ایک دوسرے کو پوشیدگی میں خبر سننا۔
 اِرْتَسَسَ۔ الخَبَر فی الناس خبر کا لوگوں میں پھیل پڑنا۔
 الرّسّٰی۔ مص۔ پرانا کنواں، علامت معدن، چیز کی ابتدا، بخار کی ابتدا۔
 رَسَّ الحُبّ محبت کا آغاز اس کا بقیہ اس کا اثر۔ بَلَغَنی رَسَّ مِنْ الخَبَر مجھے خبر کا کچھ حصہ معلوم ہوا۔
 الرّسّٰی۔ مضبوط ستون۔
 الرّسّٰی وَالْاُمْسُ سُوْسَہ۔ ٹوپی۔
 الرّسّٰی۔ مص۔ ثابت، عاقل، غیر صحیح خبر۔ رِیْحٌ رَسِیْسٌ۔ نرم ہوا۔
 الرّوْسٰی۔ ٹیلہ۔ موٹی بوند کی بارش۔

رَسَبَ و رَسِبَ (ن ک) رَسُوْبًا۔
 و رَسَبًا۔ الشیء فی المَاء۔ پانی کی تہ میں چلا جانا۔ العین آنکھ کا اندر کو بیٹھ جانا۔
 اَرَسِبَ۔ نیچے اترا۔
 الرّاسِبُ و الرّسُوْبُ۔ مِنَ الرّجَالِ۔ حلیم، بردبار۔
 الرّسِبُ و الرّسِبُ و الرّسُوْبُ و المِرْسِبُ۔ مِنَ السّیُوفِ۔ اندر گھس جانے والی تلوار۔
 الرّوْسِبُ۔ مصیبت۔
 رَسَمَ (س) رَسَمًا۔ کوہوں اور رانوں کا لاغر ہونا۔ صفت۔ (اَرَسَمَ) مَوْنُ۔ رَسَمًا۔ جہ۔ رَسَمَ۔
 اَرَسَمَ۔ لاغر کرنا۔ دلا کرنا۔
 رَسَخَ (ن) رَسُوْخًا۔ اپنی جگہ گر جانا۔
 رَسَخَ الحَبْرُ فی الصّحِیفَةِ۔ سیاہی کتاب میں جم گئی۔ رَسَخَ العِلْمُ فی القلب علم دل میں رچ گیا۔ فلاں رَسَخَ العِلْمُ فلاں پختہ علم والا ہے۔ الغَدِیْرُ تالاب کا پانی زمین میں جذب ہو جانا۔
 بیٹھ جانا۔
 اَرَسَخَ۔ گاڑنا۔ ثابت کرنا۔
 تَرَسَخَ۔ فی التّقٰی۔ تقویٰ میں راسخ القدم ہونا۔
 رَسَعُ۔ رَسَعًا۔ العَصُوْ خراب اور ڈھیلا ہونا۔ عَیْنُکَ۔ آنکھ کے پوٹوں کا آپس میں چمٹنا۔
 الصّبی وغیرہ نظر بد سے حفاظت کے لیے بچہ کے ماتھے یا پیر میں مرہ باندھنا۔
 رَسَعُ۔ رَسَعًا۔ پوٹوں کا خراب ہونا۔
 صفت (اَرَسَعُ)۔ عَیْنُکَ۔ آنکھ کے پوٹوں کا خراب ہونا۔ صفت

(اَرَسَعُ)۔ بلہ الشیء۔ چمٹنا۔
 رَسَعُ۔ آنکھ کے کوٹے کا خراب ہونا۔
 جم کر رہنا۔ الشیء۔ چمکانا۔
 السّیْر۔ ایک قسم کو چیر کر دوسرا قسم اس میں داخل کرنا۔
 الرّسَاعَةُ۔ جہ۔ رَسَاعٌ۔ تلوار وغیرہ کے پرتے کے نچلے حصے میں گندھے ہوئے تھے۔
 الرّسُوْعُ۔ کمان کے وسط کے گندھے ہوئے تھے۔
 رَسَخَ (ن) رَسَخًا۔ البعیر۔ اونٹ کی اگلی ٹانگوں کے گٹے میں رسی باندھنا۔
 رَسَخَ۔ المَطَرُ۔ ٹخنوں ٹخنوں بارش ہونا۔ العَیْشُ۔ وسیع کرنا۔
 الکلامہ۔ کلام کو ترتیب دینا۔
 رَسَعَتُ کِشْتی میں گٹے پکڑ کر گرا دینا۔
 اَرَسَخَ۔ عَلٰی عِبَالِہ۔ اہل وعیال پر دل کھول کر خرچ کرنا۔
 الرّسْعُ و الرّسْعُ۔ گٹا، پہنچا، جہ۔
 اَرَسَاعُ وَاَرَسَعُ۔
 الرّسِیْعُ۔ مِنَ العَیْشِ۔ خوشحال زندگی۔
 مِنَ الطّعام۔ بہت خوراک۔
 الرّسَاعُ۔ وہ رسی جو جانور کی اگلی ٹانگ کے گٹے میں باندھ کر کھونٹے سے باندھتے ہیں تاکہ وہ چل پھر نہ سکے۔
 المَرَسْعُ۔ مِنَ الْاَرَاہِ۔ کمزور و خام رائے۔
 رَسَفَ (ن ض) رَسَفًا و رَسِیْفًا و رَسَفَانًا۔ پاؤں بندھے ہوئے کی طرح چلنا۔
 اَرَسَفَ۔ الذّآبَتَ۔ بندھے ہوئے پاؤں والے جانور کو ہرکانا۔
 اَرَسَفَ۔ الشیء۔ بلند ہونا۔
 رَسَل (س) رَسَلًا و رَسَالَہُ۔
 الشّعْر۔ بالوں کا لٹکانا۔ البعیر۔

اونٹ کا نرم رفتار ہونا۔
رَسَنَ۔ فی القواءِ بخوش الحانی سے
پڑھنا، آہستہ آہستہ درستگی سے
پڑھنا۔

رَأَسَلَهُ۔ فی وعلی بالامر۔ ایک دوسرے
سے خط و کتابت کرنا۔ رَأَسَلَهُ
الغناء گانے میں مقابلہ کرنا۔

أَرَسَلَهُ۔ بھیجنا۔ چھوڑنا۔ أَرَسَلَ
القول۔ بات کو آزادی سے کہنا،
بلا قید بولنا۔ فَلَانًا عَلَيْهِ۔

کسی کو کسی پر مسلط کرنا۔ أَرَسَلَ
بِهِ لَأَيُّهُ۔ پیغام کے ساتھ کسی کو
کسی کے پاس بھیجنا۔ قَوْلَهُ

مَثَلًا۔ اپنے قول کو ضرب المثل بنانا۔
تَرَسَّلَ۔ نرمی کرنا۔ آہستگی کرنا۔
أَنْشَأَ الرِّسَالَةَ۔ رسالت کا دعویٰ

کرنا۔ فِي الرُّكُوبِ۔ اپنی
ٹانگوں پر کپڑے ڈال کر جانور کی پشت
پر پھیلانا۔ فِي الْعُقُودِ۔ اپنے

پاؤں پر اور ارد گرد کپڑے لٹکا کر چار زانو
بیٹھنا۔
تَرَأَسَلَ۔ القوم۔ آپس میں خط

و کتابت کرنا۔
اسْتَرَسَلَ۔ الشَّعْرُ۔ بالوں کا سیدھا
ہونا اور لٹکنا۔ الشَّيْءُ۔ نرم ہونا

۔ إِلَيْهِ۔ کسی کے ساتھ مہربانی کا
برتاؤ کرنا۔ بے تکلفی سے پیش آنا۔
۔ فِي الْكَلَامِ۔ لمبی گفتگو کرنا۔

الرَّسْلُ۔ نرمی، آسودگی، دودھ گھوڑے
کے بازو کا طرف۔ ج۔ رَسَالٌ۔
الرِّسَالُ۔ اونٹ کی ٹانگیں۔

الرَّسْلُ وَالرِّسَالَةُ۔ آہستگی، نرمی،
کہتے ہیں۔ "عَلَى رَسْلِكَ يَا رَجُلٌ"
یعنی آہستہ و باوقار رہو۔

الرَّسْلُ۔ آدمیوں کا گردہ۔ ہر چیز کا گلہ

ج۔ أَرَسَالَ۔
الرِّسَالَةُ۔ کاہلی بستی، آسودہ زندگی۔
الرِّسَالَةُ وَالرِّسَالَةُ۔ پیغام، پیغامبری

ج۔ رَسَائِلُ وَرِسَالَاتٌ۔
الرَّسُولُ۔ بھیجا ہوا، فرستادہ۔ پیغامبری۔
تیر اندازی وغیرہ میں موافق۔ ج۔

رُسْلٌ وَرُسْلٌ وَرُسْلًا۔
الرِّسِيلُ۔ بھیجا ہوا، پیغامبر، پیغامبری پیغام
بھیجنے والا۔ تیر اندازی وغیرہ میں موافق

گھوڑ دوڑ میں دوڑنے والا گھوڑا۔
کشادہ، سائڈ بیٹھا پانی۔ ج۔ أَرُسْلٌ
وَرُسْلٌ وَرُسْلًا۔

الرِّسَالَةُ۔ مشکوں کی لمبی مالا۔ ج۔
مُرْسَلَاتٌ۔ المُرْسَلَاتُ۔ ہوائیں
فرشتے، گھوڑے۔

الرِّسَالُ۔ چھوٹا تیر۔ پیغامبر۔ نَاقِئٌ
وَرَسَالٌ۔ نرم رفتار اونٹنی۔ ج۔
مَرَايِسِلُ۔

رَسَمَ (رَن) رَسْمًا۔ الْمَنْظَرُ الْبَدِيَّارُ۔
مٹا کر نشانی باقی رکھنا۔ لَعْنَةُ كَذَا۔
حکم دینا۔ عَلَيَّ كَذَا۔ لکھنا۔

الْمِكْتَابُ۔ لکھنا۔ نَحْوُهُ۔
کسی کی طرف تیز جانا۔ كَا أَرَسَقُفُ
پادری کو گرجے میں کوئی درجہ دینا۔

اسم۔ "الرَّسَامَةُ"۔ رسم (رَض)۔
رَسِيمًا۔ البعيرُ۔ نشانات
قدم کا باقی چھوڑنا۔ تیز چلنا۔

رَسَمَ۔ الثوبُ۔ کپڑے کو دھار بیدار
بنانا۔ (وَأَرَسَمَ) النِّقَاطَ۔
اونٹنی کو چلا کر اس کے نشانات قدم

ڈلوانا۔
تَرَسَمَ۔ الدار۔ مکان کے نشانات
کو غور سے دیکھنا۔ الشَّيْءُ۔ یاد کرنا

۔ الْبَائِي وَالْحَائِي عَمَارَتِ بَنَانِ
یا کھودنے کے لیے زمین دیکھنا۔

أَرَسَحَ الْأَمْرَ۔ حکم بجالانا۔ کہتے ہیں۔
رَسَمَ لَهُ كَذَا فَأَسَرَ تَسَحَ۔

اس نے اس کو ایسا حکم دیا اور وہ بجا
لایا۔ يَلِيهِ تَحَالَى۔ تکبیر کہنا۔
اور دعا کرنا۔ الرجلُ۔ گرجا کے

کسی منصب پر پہنچنا۔
الرَّسْحُ۔ مکان کے مٹے ہوئے نشانات
زمین میں دبا ہوا کنواں، کسی چیز کا خاکہ

علامت، مجاز۔ ج۔ رُسُومٌ وَ
أَرَسَحَ۔ معاملہ، ٹیکس۔
الرَّاسِيسُ۔ فا۔ جاری پانی۔

الرَّسْحُ۔ چلنے کی خوبی۔
الرَّاسُومُ۔ ج۔ رَوَاسِيَهُمُ وَرَوَاسِيَهُمُ
ج۔ رَوَاسِيَهُمُ۔ مٹے، مٹکے وغیرہ پر مٹ

لگانے کی چیز۔ کنواں کڑی جس سے
کھلیاں میں گیہوں کے ڈھیر پر مٹ لگائی
جاتی ہے تاکہ اس میں چوری نہ ہو سکے۔

۔ الرَّوْسُومُ۔ علامت۔ نشان۔
مصیبت۔
الرَّسُومُ۔ مفع۔ خط۔ سرکاری پروانہ۔

سرکلہ۔ ج۔ مَرَايِسِلُهُ وَمَرَايِسِلُهُ۔
الرَّسَامُ۔ نقاش۔
رَسَنَ (رَض) رَسْنًا وَارَسَنَ۔

الدَّابَّةَ جانور کے سر میں رسی ڈالنا۔
رَسَنَ وَارَسَنَ۔ الدَّابَّةَ جانور
کو چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دینا۔ چنانچہ

کہتے ہیں۔ "رَحِمِي بِرَسْنِهِ عَلَى غَارِبِهِ"
یعنی اس نے اس کو آزاد چھوڑ دیا اور
اس کو اپنی مرضی کا مختار بنا دیا۔

أَرَسَنَ الْمُهْمُرَ۔ بھیرے کا رام ہو کر
اپنی گردن میں رسی ڈال لینا۔
الرَّسْنُ۔ جانور کے گلے میں ڈالنے

کی رسی۔ ج۔ أَرَسَانٌ وَارَسَنَ۔
الرَّسْنُ وَالرَّسْنُ۔ من
الدَّابَّةِ۔ رسی باندھنے کی جگہ۔ ج۔

مَراِسِن۔

رَسَادَن، رَسَوَا و رُسُوَا۔ ثابت ہونا
استوار ہونا۔ صفت۔ مَراِسِن
مُونث رَاسِيَةٌ۔ جہ۔ رَوَا سِيَجُ
و رَاسِيَاتٌ۔ رَسَتْ السَّفِينَةُ
جہاز کا نگر انداز ہونا۔ رَسَا بَيْنَ
الْقَوْمِ۔ صلح کرانا اور اختلاف کو مٹا
دینا۔ عَندهُ حَدِيثٌ۔ کسی سے
حدیث بیان کرنا۔ لَهُ الْحَدِيثُ
حدیث کا ایک حصہ کسی سے بیان
کرنا۔

رَاسِيٌ۔ تیر نے میں مقابلہ کرنا۔
ارْسَى اِرْسَاءً۔ الثَّيْبُ۔ ثابت و
استوار ہونا۔ السَّفِينَةُ كُشْتِي
کو نگر انداز کرنا۔ اَلْوَتْدُ فِي
الْاَرْضِ۔ کھونٹے کو زمین میں ٹھونکنا
گاڑنا۔

الرَّسْوُ۔ حدیث کا ایک ٹکڑا۔
الرَّاسِي (ف) بڑی ہونے کی وجہ سے
ایک جگہ رہنے والی بڑی دیگ۔

الرَّوَا سِي۔ مضبوط پہاڑ۔
الرَّاسِي۔ بندرگاہ۔ جہ۔ مَراِسِن۔
الرَّاسِي۔ مفع۔ اللہ سبحانہ کا قول ہے
يَسْأَلُكَ عَنْ السَّاعَةِ آيَاتُ
مُرْسَاهَا۔ یعنی لوگ آپ سے
پوچھتے ہیں کہ قیامت کب وقوع
پذیر ہوگی۔

الرَّسَاةُ۔ کشتی یا جہاز کا نگر۔ جہ۔
مَراِسِن۔ کہتے ہیں۔ اَلْقَى
مَراِسِيَةً۔ یعنی وہ رہ پڑا۔
اَلْقَى السَّكَابَ مَراِسِيَهَا۔ بادل
جما اور خوب برسا۔

رَشَّ دَن، رَشَّ وَ تَرَشَّانَا۔
الماء۔ پانی چھڑکنا، بکھیرنا۔
السَّمَاءُ۔ آسمان کا پھوار برسانا۔

الطَّعَنَةُ زخم کا کشادہ ہو کر پھیل کر
خون بہانا۔ الشَّوَاءُ۔ بھونے
ہوئے گوشت سے چربی و چکنائی کا
ٹپکنا۔ الفَوْسُ۔ گھوڑے کو
دوڑا کر اس کا پسینہ نکالنا۔

تَرَشَّشٌ۔ علیہ الماء۔ پانی کے
چھینٹے پڑنا۔ بہنا۔
الرَّشَّشُ۔ پھوار۔ جہ۔ رَشَّاشٌ۔ الم
ناک چوٹ۔
الرَّشَّاشُ۔ پانی خون وغیرہ کا چھینٹنا۔
الرَّشَّشَةُ۔ پانی وغیرہ چھڑکنے کا آلہ۔
جھارا۔

رَشَّادٌ، رَشَّاءٌ۔ الطَّيْبُ۔ بہرنی
کے بچے کا مضبوط ہو کر ماں کے ساتھ
چلنا۔
الرَّشَّاءُ۔ بہرنے کا ہر ایک بچہ جو چلنے لگے۔
جہ۔ اَرَشَّاءٌ۔

رَشَّعَ (ف) رَشَّعًا وَ رَشَّعَانًا وَ
أَرَشَّعَ وَ اَرَشَّعَ۔ اِلْنَاءُ
بہرنے کا ٹپکنا۔ رَسَا۔ الجَسَدُ
جسم کا پسینہ والا ہونا۔ وَ رَشَّعَ
الطَّيْبُ رَشَّوْحًا۔ بہرنی کا ذوق
بہنا۔ "كَمْ يَرَشَّعُ لَهُ بَشِيْرٌ"
اس نے اس کو کچھ نہیں دیا۔

رَشَّحَتِ النَّاَقَةُ وَلَدَهَا رَشَّحًا
وَ اَسْرَشَّحَتْهُ وَ سَرَشَّحَتْهُ۔
اونٹنی کا اپنے بچے کی دُم کی جڑ کو رگڑنا
اور دھکیلنا اور خود رگ رگ کر اس
کے ساتھ ہونے کا انتظار کرنا۔ صفت
(رَاشَّعٌ وَ مَرَشَّعٌ وَ مَرَشَّعٌ)
رَشَّعٌ۔ پسینہ سے تر ہونا۔

رَشَّعٌ۔ المال۔ مال کا اچھا انتظام کرنا
۔ اَلْوَلَدُ۔ بچہ کو پالنا اور اس کو
تمہیت دینا۔ "هُوَ يَرَشَّعُ"
لَوْلَا يَدِي الْعَهْدِ۔ اس کو ولی عہدی

کی تربیت دی جا رہی ہے۔
الطَّيْبَةُ وَلَدَهَا جھنے کے بعد بہرنی
کا اپنے بچہ کو چاٹنا۔ النَّاَقَةُ
وَلَدَهَا۔ بمعنی رَشَّحَتْهُ۔
الغَيْثُ النَبْتُ۔ بارش کا نباتات کو
بڑھانا۔ اگانا۔

تَرَشَّعَ۔ وَلَدُ النَّاَقَةِ۔ بچہ کا اپنی ماں
کے ساتھ چلنے کے قابل ہونا۔
الطَّيْبَةُ۔ بہرنی کا جھنے کے بعد اپنے
بچہ کو چاٹنا۔ الماء۔ پانی کا پتھروں
سے رَسَا۔ الرجلُ يَلْأُ مِر۔
کسی کا کسی کے لیے تربیت یافتہ ہونا۔ قابل
و لائق ہونا۔

الرَّشَّعُ۔ مص۔ پسینہ۔
الرَّاشَّعُ۔ فا۔ پتھروں سے رسنے والا
پانی۔ مِیْنُ الْفُضْلَانِ۔ ماں
کے ساتھ چلنے کے قابل بچہ۔ وہ پہاڑ
جس کا پچھلا حصہ تر ہو۔ زمین پر رینگنے
والا کپڑا۔ جہ۔ رَوَا سِيَجُ۔

الرَّشَّعُ دَالِمُ رَشَّحَةٍ۔ زمین نیچے
ڈالنے کا خوگیر۔
الرَّشَّعُ۔ بہت تیز فہم۔

رَشَّادٌ (دَن) رَشَّادٌ وَ رَشَّادًا۔ وَ
رَشَّادٌ (س) رَشَّادٌ۔ ہدایت پانا۔
راہ راست پر چلنا۔ اَمْرٌ۔
ہدایت یافتہ ہونا۔

رَشَّادٌ وَ اَرَشَّادٌ۔ اِلَى كَذَا۔
و علیہ ولہ۔ ہدایت کرنا۔
رَشَّادٌ كَالْقَاضِي سِدْهُ رَاہ چلانا
اَسْتَرَشَّادٌ۔ اِلَا مَرَد۔ راہ راست
پر ہونا۔ كَ۔ ہدایت طلب کرنا۔
الرَّشَّادُ۔ مص۔ ہدایت، راستگی۔ راہِ حق
پر برقراری۔

الرَّشَّادُ۔ جائز شادی۔ جائز نکاح۔
وَلَدٌ لِرَشَّادَةٍ۔ وہ حلال زادہ ہے



الرَّشِيدُ - سیدھی راہ چلنے والا - ہدایت یافتہ، ہدایت کرنے والا۔
 الرَّشَادُ - الرَّشْدُ - ایک قسم کا پودا۔
 الرَّشَادُ - چٹان میٹھی بھر کا پتھر - ج۔
 الرَّشَادُ - سیدھے راستے۔
 الرَّشَشُ - الرَّشَشَةُ - الشَّيْءُ - چیز کا ڈھیل ہونا۔ اونٹ کا ٹھیک بیٹھنے کے لیے سینے سے زمین رگڑنا۔
 الرَّشَشُ - المَاءُ - بہنا -
 خَبْرٌ أَوْ عَظْمٌ رَشَشٌ وَ رَشْرَاشٌ - نرم روٹی یا بڑی۔
 رَشَفَ (ن) رَشْفًا وَ رَشْفًا -
 وَ رَشْفًا - وَ رَشْفًا - رَسَ -
 رَشْفًا وَ رَشْفًا - المَاءُ وَ نَحْوَهُ - ہونٹوں سے چوسنا -
 إِلَانًا - برتن میں جو کچھ ہے سب پنی جانا۔
 رَشَفَ وَ ارْشَفَ وَ تَرَشَّفَ وَ ارْشَفَ - المَاءُ بہت چوسنا
 الرِّشْفُ وَ الرِّشْفُ - حَوْضٌ كَاتُورٌ سَابِجًا بِوَابَانِي - حَوْضٌ رَشَفٌ پانی سے خالی حوض۔
 الرِّشْفُ - پانی چوسنے کا آلہ - ج۔
 مَرَّاشِفٌ - المَرَّاشِفُ -
 رَشَقَهُ (ن) رَشَقًا - بالسَّهْجِ - تیر مارنا - بِبَصَرَةٍ - گھورنا - تیز نظر سے دیکھنا - كَيْ بِلِسَانِهِ طَعْنٌ وَ تَشْنِيعٌ کرنا - "إِيَّاكَ رَشَقَاتِ اللِّسَانِ" زبان کی طعنہ زنی سے بچو اور پرہیز کرو۔
 رَشَقَ (ن) رَشَقَةً - الغَلَامُ عمدہ اور پاکیزہ قد والا چابک دست ہونا - پھرتلا ہونا - صفت - (رَشِيقٌ) ج۔ رَشَقٌ -

رَشَقَهُ مَرَّاشِفَةً - ہمراہ چلنا۔ ایک دوسرے کو تیر مارنا۔
 تَرَشَّقَ - القَوْمُ - ایک دوسرے پر تیر مارنا۔
 تَرَشَّقَ - فِي الْأَمْرِ - تیز ہونا۔
 رَشَقَ - النَّظَرُ إِلَيْهِ - تیز نظر سے دیکھنا - القَوْمُ بِبَصَرِهِ - نظر جما کر دیکھنا - النَّظِيرَةُ - ہر فی کا گردن دراز کر کے تیز نظر سے دیکھنا۔
 - الرَّامِي - سیدھا تیر پھینکنا۔
 الرِّشَقُ - تیز تیر پھینکنے والی کمان۔
 الرِّشَقُ وَ الرِّشَقُ - قَلَمٌ كِي آواز - ج۔
 ارْشَقَ
 الرِّشَقُ - سیدھا کھڑا - جَيِّدٌ ارْشَقُ سیدھی کھڑی گردن۔
 الرِّشِيقُ - نازک اندام خوبصورت - مِنْ اللَّفْظِ أَوْ الْخَطِّ - خوش کلام یا خوش خط۔
 رَشَمَ (ن) رَشْمًا - بَيَدَ الرَّجُلَيْنِ - غلہ کے انبار پر مہر لگانا - (رَشَمَ) لکھنا۔
 رَشَمَ (ن) رَشْمًا - کھانے کی خوشبو پر کھانے کی خواہش کرنا - صفت (ارْشَمَ) - ارْشَمَ الشَّجَرُ - درخت کا پتے لانا - الارضُ - زمین کا سبزہ اگانا - البرقُ - بجلی کا چمکنا - المَاشِيَةُ - جانور کا شروع کا سبزہ چرنا - (ارْشَمَ) إِلَانًا - برتن پر مہر لگانا۔
 الرِّشْمُ - پہلے پہلے پھونٹنے والا سبزہ - بچو کے چہرے کی سیاہی - ر۔
 وَ الرِّشْمُ - زمین پر بارش کا اثر - ہر چیز کا اثر۔
 الرِّشْمُ - دَاغٌ دَارٌ - کُتَا - مِيقَ الغَيْثِ - تھوڑی بارش - عَامٌ

ارْشَمَ - وہ سال جو بخوبی فرائی و ارزانی کا نہ ہو۔
 الرِّشْمُ وَ الرِّشْمُ - کنڈا تنہی جس سے غلہ کے انبار پر مہر لگاتے ہیں۔
 الرِّشْمَةُ - بچو کے چہرے کی سیاہی۔
 رَشَنَ (ن) رَشْنًا وَ رَشْنًا - ناخواندہ مہمان بننا - الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ - کتے کا برتن میں سروالنا۔
 الرِّشْنُ وَ الرِّشْنُ - پانی نکلنے کا دھانہ۔
 الرِّاشِي - فَا - بن بلائے مہمان - وظيفہ جو کاریگر کے شاگرد کو دیا جاتا ہے - عوام اس کو "حُلْوَان" بولتے ہیں۔
 الرِّوْشَنُ - روشندان - ج۔ رَوَاشِي - رَشَاةُ (ن) رَشْوًا - رشوت دینا۔
 رَاشِي - مَرَّاشِي - فَلَانًا - رشوت دینا۔ مدد کرنا۔
 ارْشَى - الدَّلُو - ڈول میں رسی ڈالنا۔
 - الشَّجَرُ - درخت کی ٹہنیاں دراز ہونا - القَوْمُ فِي دَمِهِ - کسی کے خون میں شریک ہونا۔
 تَرَشَّ - الرَّجُلُ - کسی کے ساتھ نرمی برتنا۔
 ارْشَى - رشوت لینا - مِنْهُ رَشْوًا - رشوت دینا۔
 ارْشَى - فِي حَكِيمِهِ - فیصلہ پر رشوت طلب کرنا - الْفَصِيلُ - اونٹ کے بچے کا دودھ پینے کی خواہش کرنا - مَا فِي الصُّرْعِ - تھن سے دودھ نکالنا۔
 الرِّشْوَةُ وَ الرِّشْوَةُ - رشوت - ج۔ رُشَى وَ رُشَى -
 الرِّشَاءُ - عام رسی یا خاص ڈول کی رسی۔
 ج۔ ارْشِيَّةٌ - کہتے ہیں "اتَّبِعِ الدَّلُو رَشَاءَهَا" یعنی ڈول کے پیچھے رسی کو جانے دو۔ یہ وہاں بولتے ہیں جہاں ایک کو دوسرے کی اتباع



کرانی مقصود ہو۔

الرَّشَاقُ - ایک پودا کا نام ہے۔

الرَّشِيْقُ - اونٹ کا بچہ۔

الرَّشَاءُ - ڈول کی رسی۔

رَصَنَ (ن) رَصًا - الشَّيْءُ - ایک کو دوسرے سے ملانا۔ چٹنا۔

رَصَصَهُ - بمعنی رَصَصَ - سیسے کی قلعی کرنا۔

الْوَجَلُ - کسی کا سوال میں اصرار کرنا۔

تَرَصَّصَ - وَاِرْتَصَّ - پیوستہ ہونا۔ جڑنا۔

تَرَاَصَّ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے سے جڑنا۔ ملنا۔

الرَّصَاصُ - سیسہ۔ واحد رَصَاصَةٌ

وَالرَّصَاصِيَّةُ - سیسے کے رنگ والا۔

الرَّصَصُ - دانتوں کی پیوستگی۔

الرَّصِيصُ - ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا۔ مَوْنُثٌ - رَصِيصَةٌ - جہ

رَصَاصِيصٌ -

الرَّصَصُ - پیوستہ اور جڑے ہوئے دانتوں والا ہونا۔ مَوْنُثٌ - رَصَاؤٌ - جہ

رَصِيصٌ - بُنْيَانٌ مَرَصُوصٌ - مضبوط عمارت۔

الرَّصُوصَةُ - ایک قسم کی کلاہ۔

الرَّصَاصَةُ - بخیل۔ جاری چشمے کے ارد گرد کے پتھر۔

رَصِيحٌ (س) رَصِيحًا - قریب قریب سرین ہونا۔ صفت (اَرَصِيحٌ)

رَصَحَ - فِي الْاَمْرِ - بمعنی رَصَحَ -

رَصَدَهُ (ن) رَصَدًا وَاَرَصَدًا - انتظار کرنا۔ گھات میں بیٹھنا۔

رَصِيدُ الْمَكَانِ - کسی جگہ بارش کی بوجھاڑ پڑنا۔ صفت (مَرَصُودٌ)

رَاَصَدَهُ - نگرانی کرنا۔ گھات میں بیٹھنا۔

اَرَصَدَ - الرَّقِيبُ - رقیب کو راستہ

میں گھات لگانے کے لیے کھڑا کرنا۔

لَهُ شَيْئًا تَيَّارًا - مہیا کرنا۔

لَهُ خَيْرًا اَوْ شَرًّا - بدلہ دینا۔

الْحِسَابُ - پیش کرنا۔ ظاہر کرنا۔

شمار کرنا۔

اَرَصَدَكَ وَتَرَصَدَكَ - نگرانی کرنا۔

تَرَصَدَكَ لَهُ - گھات میں بیٹھنا۔

تَرَاَصَدَ - الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے کے گھات میں بیٹھنا۔

الرَّاصِدُ - فَا نَكَبَانِ - شیر۔ گھات میں بیٹھنے والا۔ جہ - رَصَدٌ و

رَصَدٌ -

الرَّصَدُ - راستہ۔ تھوڑی بارش یا گھاس جہ - اَرَصَدًا - گھات میں بیٹھنے والے

لوگ (واحد جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے یکساں آتا ہے) کبھی جمع میں

اَرَصَادٌ بھی کہتے ہیں۔

الرَّصَدَةُ - بارش کا جھلا۔ بارش کی بوجھاڑ۔ جہ - رَصَادٌ -

الرَّصَدَةُ - توار کے پرتلے کا حلقہ شیر وغیرہ کے شکار کرنے کا گڑھا۔

الرَّصُودُ - پانی پینے کے لیے انتظار کرنے والی اونٹنی۔

الرَّصِيدُ - گھات میں رہنے والا۔

الرَّصَادُ - راستہ۔ وَاَلْمَرَصَدُ

گھات میں بیٹھنے کی جگہ۔ جہ - مَرَاصِدُ

وَمَرَاصِدُ الْحَيَاتِ - سانپوں کے چھپنے کی جگہیں۔

رَصَرَصَ - الْبِنَاءُ - عمارت کو مضبوط کرنا۔

رَصَاؤٌ - فِي الْمَكَانِ - کسی جگہ ٹھہرنا۔ رہنا۔

الرَّصْرَاصَةُ - سخت زمین۔ جاری چشمے کے ارد گرد کے پتھر۔

رَصَعَهُ (ف) رَصَعًا - بیدار۔

تَقَرَّرَ - بِالْوُجْهِ - زور سے

نیزہ مارنا۔ رَصَعَ الْيَسْنَائِ فِي

الْمَطْعُونِ - نیزہ کے بھالے کو زخمی کے اندر غائب کر دینا۔ — الْحَبَّةُ -

دانہ کو دو پتھروں کے درمیان کوٹنا۔

— رَصَوْعًا بِالْمَكَانِ - کسی جگہ

اقامت پذیر ہونا۔

رَصَعٌ (س) رَصَعًا — بِالْمَشْيِ -

چپکنا۔ بِالطَّلِبِ - خوشبو سے

مہک جانا۔

رَصَعٌ - الشَّيْءُ - اندازہ کرنا۔ بننا۔ کہتے ہیں۔

«رَصَعُ الطَّائِرِ عَشَقَهُ بِالْقَضْبَانِ»

پرنڈے نے اپنے گھونسلے کو تیلیوں سے

بنا اور چنا۔ الذَّهَبُ بِالْجَوَاهِرِ

سونے میں ہیرے موتی جڑنا۔

الْعَقْدُ بِالْجَوَاهِرِ - ہار میں جواہر

جڑنا۔

اَرَصَعَهُ - بِالْوُجْهِ - زور سے نیزہ

مارنا۔

اَرَصَعَهُ - الْحَبَّةُ - دانہ کو دو پتھروں کے

درمیان کوٹنا۔ بدلہ۔ چپکنا۔

— اَسْنَانُهُ - دانتوں کا پیوستہ و

برابر ہونا۔

تَرَصَّعَ - جَرَّادٌ - خوش ہونا۔ چست ہونا

الرَّصِيْعَةُ - کوٹے ہوئے دانے۔ لگام کی

گمرہ۔ زین یا توار کا حلقہ۔ یا گول زیور۔

جوزینت کے لیے لگاتے ہیں۔ جہ۔

رَصَائِعُ -

الرَّصْعُ - لاغری والا۔ طَعْنٌ

اَرَصَعُ - پورا چھدا ہوا نیزہ۔

رَصَفَ (ن) رَصَفًا - الْجِبَارَةُ

ایک دوسرے سے جڑنا۔ اور بیچے

پتھر رکھنا۔ الْمُصَلَّى قَدَمَيْهِ

اَوْ بَيْنَ قَدَمَيْهِ - نمازی کا اپنے

قدموں کو قریب قریب رکھنا یا ایک

کو دوسرے سے ملانا۔ کہتے ہیں۔



”هَذَا الْأَمْرُ لَا يَرُصَفُ بِكَ“ یہ

کام تمہارے لائق نہیں۔

رَصِفْتُ دَكَ، رَصَافَةٌ — الْعَمَلُ مضبوط ہونا۔

رَصِفْتُ دَسَ، رَصْفًا وَرَصِفْتُ رَصْفًا — أَسْنَانُهُ دانتوں کا پیوستہ و ہموار ہونا۔

أَرَصِفْتُ — شَرَابٌ وَغَيْرُهُ میں پہاڑی چشمے کا پانی ملانا۔

تَرَصَّفْتُ وَتَرَاصَفْتُ وَارْتَصَفْتُ

— الْحِجَارَةُ پتھروں کا ایک

دوسرے سے بالترتیب ملا ہوا ہونا۔

الْقَوْمُ فِي الصَّفِّ — لوگوں کا

صف میں ایک دوسرے سے مل کر

کھڑا ہونا — أَسْنَانُهُ دانتوں کا

برابر و ہموار ہونا۔

الرَّصَفُ — پانی کے بننے کی جگہ میں ایک

دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے پتھر

ندی میں پتھروں کا فرش۔ واحد۔

رَصَفَتَانِ — الرَّصَفَتَانِ گھٹنے

کی ہڈیوں کے پیچھے۔ گھٹنے —

الرَّصَفُ — پانی کا بند۔ پشتہ —

مَاءُ الرَّصَفِ — پہاڑ سے چٹان پر

گرنے والا پانی۔

الرَّصَافُ — گھوڑے کا پھل پہلو کی ہڈیاں

جہ۔ رَصَفٌ وَرَصْفٌ —

الرَّصِيفُ — نظیر۔ دوست۔ عَمَلٌ

رَصِيفٌ — مضبوط کام۔ الرَّصِيفُ

پتھروں سے فرش کیا ہوا راستہ (مولد)

الرَّصَافَةُ — پٹھا جو چھڑ میں تیر کے پھل

کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر لگایا

جاتا ہے۔ جوانب شہر کا سبزہ زار۔

عام طور سے بغداد کے ایک محلہ کو

کہتے ہیں۔ الرَّصُوفَةُ — استقلال، ثابت قدمی۔

الرَّصَافَةُ — ہتھوڑا۔

رَصَنَ دَنَ، رَصْنًا — الْأَمْرُ کسی امر

کو پورا کرنا مضبوط کرنا — الدَّابَّةُ

جانور کے داغ لگانا — كَيْلَسَانِيَه

گالی دینا۔

رَصَنَ دَكَ، رَصَانَةً — الْعَقْلُ

وغیرہ۔ سنجیدہ ہونا۔ مضبوط ہونا

ثابت قدم رہنا۔ صفت (رَصِيفٌ)

رَصَنَ — الشَّيْءُ مَعْرِفَةً — چیز کو

بخوبی سمجھنا۔ جاننا۔ رَصَنَ لِي

هَذَا الْخَبْرُ — میرے لیے اس

خبر کی تحقیق کرو۔

أَرَصَنَ — پکا کرنا۔ مکمل کرنا۔

الرَّصَنُ — ایک پودہ کا نام ہے۔

الرَّصِيفُ — اپنے ساتھی کی حاجت کے لیے

کرنے والا۔ دکھی۔ دردمند۔

الرَّصَنُ — جانوروں کو داغ دینے کا لوہا۔

رَصَانٌ، رَصَوًا — الشَّيْءُ مضبوط کرنا

پکا کرنا۔

أَرَصَى — بِالْمَكَانِ کسی جگہ پر پڑنا۔

جَمُّ کر رہنا۔

رَصَنَ دَنَ، رَصْنًا — كُتْنَا، كُنَّا۔

رَصَفَ — الشَّيْءُ — خوب کوٹنا یا دلنا۔

تَرَصَفَ — کوٹنا جانا۔ دلا جانا۔

أَرَصَ — بوجھل و سست رفتار ہونا۔ تیز

دوڑنا — فِي الْأَرْضِ — جانا۔

التَّعَبُ الْعَرَقُ — تکان کا پسینہ

کو بہا دینا۔

أَرَصَنَ — الشَّيْءُ — كُتْنَا — الْأَرْضُ

جَمُّ کر بیٹھنے والا۔

الرَّصِيفُ — کوٹا ہوا۔ دلا ہوا۔

الرَّصَافُ — ٹوٹی ہوئی چیز کے ٹکڑے۔

الرَّصِيفَةُ وَالرَّصِيفَةُ — وَالرَّصَنُ۔

گٹھلی نکلی ہوئی اور دودھ میں بھگوئی

ہوئی کھجوریں — الرِّصَنَةُ کوٹنے

یاد لےنے کا آلہ۔

رَضَبٌ (ن) رَضْبًا وَارَضَبٌ —

الْمَطَرُ — بارش کا زور سے برسنا۔

السَّمَاءُ — آسمان کا بارش برسانا۔

رَضَبٌ وَتَرَضَبٌ — الرِّيحُ

تھوک چوسنا۔

الرَّاضِبُ — فَا — مِنَ الْمَطَرِ — موسلا

دھار بارش۔ زور کی بارش۔

الرَّضَابُ — چوسا ہوا تھوک۔ شہد کا لعاب

اور اس کا جھاگ۔ مشک کے کھیرے

دریزے۔ برف اور شکر وغیرہ کے

ٹکڑے۔ اولے۔ مَاءُ رَضَابٍ —

سیٹھا پانی۔

الرَّاضِبُ وَالْمَرَّاضِبُ — خوش مزہ

تھوک۔

رَضَمَ دَنَ، رَضْمًا — النُّوْءُ

الْحَصَى — گٹھلی یا لکڑ توڑنا —

رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ — سر کو پتھر سے

کچلنا۔

تَرَضَمَ — الْحَصَى — لکڑی کا توڑنا۔

الْخُبْرُ — رُوْطِي کا توڑنا۔

أَرَضَمَ — مِنَ الْأَمْرِ — عذر کرنا۔

الرَّضَمُ — مَعْنَى بِمَنْطِقِي نَحْشِشْ، کہا جاتا ہے

بَلَعْنَا رَضَمًا مِنَ الْخُبْرِ یعنی ہمیں

معمولی بات معلوم ہوئی۔

الرَّضَمُ — شِكْطِي — الرَّضِيفُ — لُؤِي

ہوئی گٹھلی۔

الرَّضَفَةُ — تُوڑتے وقت پتھر کے نیچے سے اڑ

جانے والی گٹھلی۔ تھوڑی بارش۔ جہ۔

رَضَاً —

الرَّضَاخُ — وہ پتھر جس سے گٹھلیاں

توڑی جاتیں۔

رَضَمَ (ف) رَضْمًا — النُّوْءُ

الرَّضَمُ — تُوڑنا۔ کہتے ہیں۔ رَضَمَ

لَهُ مِنْ مَالِهِ رَضْمَةً — اس نے

اپنے بہت سے مال میں سے کچھ تھوڑا سا دیا۔ الْقَبِيْضُ - میٹھول کا ایک دوسرے کو سینگ سے مارنا۔ رَضَخَ لِلْحَقِّ - حق مان لینا حتیٰ پر یقین لانا۔ رَاَصَحَّهٗ - ایک دوسرے کو پتھر سے مارنا۔ بَادِلِ نَاخِرَا سَتِهٖ دِيْنَا - ہنڈی الشیء۔ کسی سے کچھ پانا۔ حاصل کرنا۔

أَرْضَهُ - لِلْوَجَلِ - زیادہ میں سے کم
وینا۔

تَرَاضِعُ الْقَوْمُ بِالْحِجَادَةِ - ایک
دوسرے پر بھروسہ کرنا۔

تَرْضَیْهِ۔ الْحِصْنِ کِنکری کا ٹوٹنا۔

الخُبْزَ - روٹی توڑ کر کھانا۔

النَّصَبُ - خبر سن کر اس پر یقین نہ لانا۔

الرَّضِيحُ - تَهْوِي نَجَشِشٍ غَيْرِ يَقِينِي خَبَرِ.

الرَّضِيحُ - بُولِي كَمَطْل

الرَّضِيخَةُ وَالرُّضَاخَةُ - تَهْطَرِي

بحشش

المريض ضايق - ج. مراضين (المريض ضايق)

وہ پتھر جس سے یا جس پر نور اچائے۔

رضادون، رَضَدًا - المتاع - سامان
که چنانچه از آنجا که

لوچینا۔ زریب سے رکھنا۔
اَضْرَبَ بِرِجْلِهِ رَمْلًا

تَصَوُّفٌ - الْحَقُّ - سُبْحَانَكَ يَا طَائِفُ

نذر صریح - الحجہ - پھر کا لوسنا۔
نذر پھر ہے لڑا حکماء۔

الرَّحْمَةُ أَفْضَلُ مِنْ جَهَنَّمَ وَأَنْتَ بَارِكٌ كَثِيرٌ

بر گوشت آدمی بمونث. رَحْمَةُ

رَضِعَ (س) وَرَضَعَ (ف ض) رَضْعًا

وَرَضْعًا وَرَضِيعًا وَرَضَاعًا و

رِضَاءًا وَرِضَاءَةً وَرِضَاءَةً

وَأَرْضُضَع - الْوَلَدُ أُمَّهُ -

بچہ کا ماں کا دودھ پینا۔ صفت

(رَاضِعٌ) ج. رُضْعٌ - رَضِعَ رَكْ،

رَضَاعَةً - لَسِيمٌ هُونًا - كَسِيمٌ هُونًا - صَفَتْ

رَاضِعَةٌ - رِضَاعًا وَمُرَاضَعَةٌ.

دودھ شریک بھائی کے ساتھ دودھ

”هُوَ عَلَى الرَّضْفِ“ یعنی وہ

صفت مفعول (مَوْضِعِيٍّ وَمَوْضِعِيٍّ) کہتے ہیں "رَضِيَ اللَّهُ عَنْ فُلَانٍ" اور رَضِيَ بِهِ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرمائے اور اس کو ثواب سے نوازے۔
رَضِيَتْ مُعِيْشَتُهُ۔ اس کی زندگی خوشگوار ہے۔
رَاضِي رِضَاءً وَمُرَاضَاةً۔ الرجل کسی کی رضامندی طلب کرنا۔ پسندیدگی میں مقابلہ کرنا۔
أَرْضِي وَرَضِي۔ الرجل کسی کو راضی کرنا۔ عطیہ دے کر راضی کرنا۔ خوش کرنا۔
تَرْضِي۔ الرجل کسی کی خوشنودی پامنا۔ تَرْضِي۔ القوم الشئ کسی شے کو قوم کے سارے افراد کا پسند کرنا۔
إِرْتِضَاءً۔ لِيَجْذُمِيْهِ أَوْ لِيُصْحَبِيْهِ۔ کسی کو اپنی خدمت یا سنگ کے لیے پسند کرنا۔
اسْتَرْضَاةً۔ کسی کی رضامندی طلب کرنا۔
وَأَسْتَرْضِيْتُهُ۔ میں نے جانا کہ وہ مجھے خوش کرے۔ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ (رضعی) پسندیدہ مرد یا عورت (مفرد) تشنیه، جمع مذکر مونث سب کے لیے یکساں آتا ہے۔ عِيْشَتُهُ رَاضِيَةً خوشگوار زندگی۔

رَضُوِي۔ مدینہ طیبہ اور ینبع کے درمیان ایک پہاڑ کا نام ہے۔ نسبت کے لیے رَضُوِي۔
الرِضَاءُ خوشنودی۔ الرِضْوَةُ رضامندی۔

الرَضِيُّ عَاشِقٌ لَاعِرٌ جَهِيرٌ۔
أَرْضٌ رَاطَاً۔ بیوقوف ہونا۔ چیخنا۔
جَلَانَا۔ شور مچانا۔ فِی مَقْعَدِهِ

جم کر بیٹھنا۔
اسْتَرَطَلْتُ۔ بے وقوف جانا۔ سمجھنا۔
الرَطِيْطُ شورغل، چیخ پکار۔ بے وقوفی بے وقوف۔ جر۔ رَطَاطٌ
الرَطَايُطُ بے وقوف لوگ، جمع ہی ہے اس کا واحد نہیں۔
رَطَايُطٌ (رَطَايُطٌ) القوم۔ قوم کو ناپسندیدہ امر میں الجھادینا۔
اسْتَرَطَايُطُ الرجل۔ احمق ہونا۔ الرجل۔ احمق ماننا۔
الرَطَايُطُ حماقت۔ الرَطِيْطُ۔ احمق۔ جر۔
رَطَايُطٌ۔ مونث۔ رَطِيْطَةٌ وَرَطَايُطٌ۔

رَطَبٌ (ن) رَطَابَةٌ۔ البُسْرُ۔ بھر کھجور کا پختہ ہونا۔ رَطَبٌ بنا۔
رَطَبٌ (ن) رَطْبًا وَرَطُوبًا۔ الدَّابَّةُ جانور کا ترچارہ چرانا۔ رَطَبَةٌ وَرَطَبَةٌ۔ تازہ پختہ کھجوریں کھلانے
رَطَبٌ (ن) وَرَطَبٌ (ن) رَطُوبَةٌ وَرَطَابَةٌ۔ تر ہونا۔ نم ناک ہونا۔
نرم و نازک ہونا۔ رَطَبُ البُسْرِ پختہ ہونا۔
رَطَبٌ وَارَطَبٌ۔ الثَّوْبُ وَذِخْوَةٌ۔ تر کرنا۔ رَطَبُ القَوْمِ۔ پختہ رطب کھجوریں کھلانا۔ وَارَطَبْتُ الْأَرْضَ زمین کا پختہ کھجوروں والی ہونا۔
أَرَطَبْتُ النَّخْلَ۔ کھجوروں کے پکنے کا موسم آنا۔ أَرَطَبْتُ القَوْمَ۔ قوم کے درختانے خرما کا پختہ کھجوریں لانا۔

تَرَطَبٌ۔ نمناک ہونا۔ بھگنا۔ تر ہونا۔
چنانچہ کہتے ہیں "تَرَطَبَ لِسَانِي" بِذِكْرِكَ میں تمہارے ذکر میں رطب اللسان ہوں۔

الرَطَبُ وَالرَطِيْبُ۔ تر، نمناک

نرم۔ ملائم، نازک ٹہنی یا پروغیرہ۔
عِيْشَتُهُ رَطِيْبٌ خوشحالی کی زندگی۔
الرَطَبُ وَالرَطِيْبُ۔ سبز گھاس تازہ سبزی۔
الرَطَبُ پختہ تازہ کھجور۔ واحد (رَطَبَةٌ)۔ جر۔ رَطَابٌ وَارَطَابٌ۔
رَطَبَةٌ (ن) رَطْبًا۔ رَطْبًا۔ تھپڑ مارنا۔
الرَطَبَتُ عَلَيْهِ الْحَجَارَةُ۔ کسی پر پتھر کا تہ بہ تہ ہونا۔
رَطَلٌ (ن) رَطَلًا۔ الشئ۔ ہاتھ میں لے کر وزن کا اندازہ کرنا۔ الرجل دوڑنا۔

رَطَلٌ۔ الشَّعْرُ۔ بالوں میں تیل لگا کر ان کو نرم کرنا۔ اور ان میں گٹھی کرنا۔
الشئ کسی چیز کا رطل پیمانہ سے وزن کرنا۔ (وَأَرَطَلُ) الرجل ڈھیلے کانوں والا ہونا۔
رَاطَلٌ۔ رطلوں سے بیچنا۔
الرَطَلُ وَالرَّطَلُ۔ ایک وزن بارہ اوقیہ کا، شام میں پانچ پونڈ کا اور مصر میں پونے سولہ اونس کا۔ جر۔

أَرَطَلُ الرجل۔ الرَطَلُ۔ مِنَ الرِّجَالِ احمق، سست۔ کمزور۔ بوڑھا۔ لاعز اعضاء۔ قریب البلوغ لڑکا، سبک و تیز رفتار گھوڑا۔
الرَطَلَةُ۔ تیز رفتار گھوڑی۔
الرَطَلُ۔ مِنَ الرِّجَالِ۔ نرم، لمبا۔
رَطَبَةٌ (ن) رَطْبًا۔ کھجوریں ڈالنا۔
یا ایسی شکل میں پھنسانا کہ خلاصی دشوار ہو۔

رَطَحَ وَارَطَحَ۔ فِی تَعْوِذِهِ جم کر بیٹھنا۔ وَارَطَحَ الرَّجُلُ۔ خاموش رہنا۔


رَطَحَ۔ البَعِيْرُ۔ اونٹ کو قبض ہونا۔
تَرَطَحَ۔ پانچانہ روکنا۔



لڑائی لایا۔
الرَّعْدَةُ وَالرَّعْدَةُ - کپکپی ہو خوف
وغیرہ سے لاحق ہو۔ لرزہ۔
الرَّعَادُ - بہت بولنے والا۔ بہت گرجنے
والا بادل، ایک قسم کی مچھلی جس کے چھوٹے
سے بدن کا ٹپنے لگتا ہے۔
الرَّعَادَةُ - بہت بولنے والا۔
الرَّاعِدَةُ - گرجنے والا بادل۔ مَصْنَعٌ
تَحْتَ الرَّاعِدَةِ "اس شخص کو
کہتے ہیں جو فضول نہاں کو اسی ہو۔ کام
کی بات نہ کہتا ہو۔ ج۔ رَوَاعِدُ
ذَاتِ الرَوَاعِدِ - مصیبت۔
رَعْدَدٌ - اصرار کے ساتھ مانگنا۔
تَرَعَّدٌ - کپکپی پڑنا۔
الرَّعْدِيْدُ وَالرَّعْدِيْدَةُ - بزدل۔
بہت کانپنے والا۔ نَبَاتٌ
رَعْدِيْدٌ - نرم و نازک نبات۔
ج۔ رَعَادِيْدٌ -
رَعْرَعٌ - الماءُ - پانی کا سطح زمین پر
لہریں مارنا۔ الفَرَسُ - گھوڑے
پر اس کو سدھانے کے لیے سوار ہونا۔
عُ اللّٰهُ اِگانا۔
تَدْرَعُ - الصَّبِيءُ - بچہ کا بڑھنا۔ جوان
ہونا۔ الماءُ أَوِ السَّرَابُ - پانی
یا سراب کا جنبش و حرکت میں ہونا۔
السِّنُّ - دانت کا ہلنا۔
الرَّوْعُ وَالرَّوْعُ وَالرَّوْعُ -
خوبصورت قد و جوانی والا۔ ج۔
رَعَارِعٌ وَرَعَارِيْعٌ وَالرَّوْعَارِعُ -
بزدل، لمبا نرکل۔
رَعَسَ (ف) رَعَسًا - کانپنا۔ ممکن
وغیرہ سے کمزور چال چلنا۔ ر۔
رَعَسَا وَرَعَسَانَا رَأْسَهُ
سر کو بڑھاپے کے سبب ہلانا۔
أَرَعَسَهُ - کپکپا دینا۔ لرزادینا۔

تَرَعَسَ وَارْتَعَسَ - کانپنا۔ لرزنا۔
الرَّوْعُوسُ - خوشی یا نیند کی وجہ سے سر
ہلانے والا۔ نَاقَةُ رَأْسِهِ
چست اونٹنی۔
الرَّوْعِيْسُ - چلنے میں ڈمک گانے والا۔ کانپنے
والا۔
الرَّعَسُ - شیس آدمی۔
رَعَشَ (س) رَعَشًا وَارْتَعَشَ - کانپنا
لرزہ پڑنا۔ صَفَتِ رَعَشٌ وَ
رَعِيْشٌ
أَرَعَشَهُ وَرَعَشَهُ - کپکپا دینا۔ لرزہ
ڈال دینا۔ عاجز کرنا۔
الرَّعِيْشُ وَالرَّعِيْشِيْسُ - بزدل۔
جلد باز۔
الرَّعِيْشَةُ - عجلت۔ جلدی۔
الرَّعَاشُ - مرض کے باعث انسان کو
لاحق ہونے والی کپکپی۔ نَاقَةُ
رَعُوْشٌ وہ اونٹنی جس کا سر
بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔
الرَّوْعَاءُ - مِنَ النَّعَامِ - تیز رفتار
شتر مرغ۔ مِنَ السُّوقِ - تیز
رفتاری کی وجہ سے جھوم کر چلنے والی
اونٹنی۔
الرَّوْعَشُ وَالْمَرَعَشُ - سفید کوتر
جواوخی اڑان بھرتا ہے۔
الرَّوْعَشُ - کانپنے والا۔ بزدل۔ جلدی
کرنے والا۔
رَعَصَ (ف) رَعَصًا وَارْعَصَ -
الشيءَ - حرکت دینا۔ ہلانا۔ کھینچنا۔
- عَلَيْهِ جَلْدُهُ - کھال کا پھڑکنا
تَرَعَصَ وَارْتَعَصَ - پیچ کھانا۔ ہلنا
حرکت - عَلَيْهِ جَلْدُهُ - کھال
کا پھڑکنا۔ الْجَدِيُّ - بکری
کے بچہ کا خوشی سے پھدکنا، اچھلنا۔
رَعَضَ (ف) رَعَضًا - السَّمَمُ - تیر

میں پریکان لگانے کی جگہ بنانا۔ پریکان
کی جگہ توڑ دینا۔
رَعَّظَكَ - عَنْ كَذَا - سست بنانا۔
جلدی کرانا۔ الْوَتْدُ - کیل کو
اکھیڑنے کے لیے ہلانا۔
الرَّعْظُ - تیر میں پریکان لگانے کی جگہ۔ ج
أَرَعَّظَكَ - کہتے ہیں "کُسِرَ عَلَيْهِ
أَرَعَّظَ الْبَيْتَ" وہ اس پر بہت
غضبناک ہوا۔
رَعَفَ (ف) رَعْفًا - الْفَرَسُ
الْخَيْلُ - گھوڑے کا اور گھوڑوں سے
آگے نکل جانا۔
رَعِفَ (س) رَعْفًا - الدَّمُ - ناک سے
نکسیر کا خون بہہ پڑنا۔ نکسیر پھوٹنا۔
ر۔ وَرَعَفَ (ف) رَعْفًا وَرَعَا
- الرَّجُلُ - نکسیر پھوٹنا۔
رَعَفَ يَلِي الْبَابِ - اچانک اندر
آ جانا۔
أَرَعَفَهُ - جلدی کرانا۔ الْقَرْبَةُ -
مشک کو بھر کر بال دینا۔ الْقَلَمُ
قلم میں سیاہی زیادہ لگا لینا۔
أَرَعَفَ وَاسْتَرَعَفَ - آگے بڑھنا۔
سبقت کرنا۔ وَاسْتَرَعَفَتْ
الْحَصَى رَجُلًا - کنکریوں نے اس
کے پاؤں کو خون آلودہ کر دیا۔
الرَّعَفُ - نيزہ مارنے کی پھرتی۔
الرَّعَافُ - نکسیر۔ بہت بارش۔
الرَّعَافُ - وہ شخص جس کو نکسیر پھوٹنے کی
بڑی شکایت ہو۔ بہت آگے بڑھنے
والا۔
الرَّعَافِيُّ - بہت فیاض۔
الرَّاعِفُ - ذَا - ناک کا کنارہ۔ پہاڑ کی
چوٹی اور گھوڑوں سے آگے نکل جانے
والا گھوڑا۔ ج۔ رَوَاعِفُ - الرَوَاعِفُ
نیزے۔ الرَّوْعُ وَالرَّوْعُ



وَالرَّاعُونَ وَالْأَرْعُونَ -

مِنَ الْبَيْتِ - کنویں کا پتھر جس پر کھڑے ہو کر پانی نکالیں۔

الرَّعُونَ - ہلکی بارشیں۔

الرَّاعِفُ - ناک اور اس کے آس پاس کی جگہ۔ فَعَلَتْ عَلَى الرَّعْمِ

مِنْ هَرَاغٍ - میں نے اس کو اس کی مرضی کے خلاف کیا۔

الرَّعِيفُ - آگے رہنے والا گھوڑا۔

رَعَى دَفَّ رَعَا وَرَعِيْنَا - بَطْنُ الدَّائِبَةِ - دوڑتے وقت جانور کے

پیٹ سے آواز نکلنا۔

رَعَلَ دَفَّ رَعْلًا - الشَّيْءُ شَكَاكَ فَرَاخَ كَرْنَا - خَلَاْنَا - زور سے

نیزہ مارنا۔

رَعِلَ دَسَ رَعْلًا - يَهْوِفُ هَوْنًا -

الذَّبَاتُ - پودے کی شاخوں کا لٹکنا

اور لمبا ہونا۔ صفت (رَعْلٌ)

رَعَلَ - الْكُرْمُ - انگور کی بیل کا

بھوٹنا۔

أَرَعَلَهُ - زور سے نیزہ مارنا۔

اسْتَوْعَلَتْ - الْقَنْدُ - بکریوں کا

آگے پیچھے چلنا۔ اسْتَوْعَلَ

الرَّجُلُ - کسی کا جنگ میں سب

سے آگے آگے چلنا۔

الرَّاعِلُ - احمق۔ مَوْنَتْ - رَعْلًا -

ج - رَعْلٌ - لمبی اور ٹھکٹی ہوئی شاخ

والی نبات۔

الرَّعْلُ - پہاڑ کی نکلی ہوئی چوٹی۔ کپڑے۔

الرَّعْلُ - شمد کی نرم نکھی۔ الرَّعَالُ

ناک کی ریشہ۔

الرَّعَالَةُ - حماقت۔

الرَّعْلَةُ - شتر مرغ، خاندان، عیال

گھوڑوں یا گایوں کا گلہ۔ بری قسم کی

کھجور کا درخت۔ کونیل، ایک پودے

کا نام۔ ج - رَعَالٌ وَارَعَالٌ -

وَارَاعِيلٌ - أَرَاعِيلٌ -

الْبِيَّاحُ أَوِ السَّحَابُ - ہواؤں کے

پہلے چھونکے یا ابتدائی بادل۔

الرَّعْدَةُ - انگورو وغیرہ کی کونیل۔ ج -

رُعْلٌ - ریحان و آس وغیرہ سے

تیار کردہ تاج۔

رُعِيلٌ - آگے رہنے والا گھوڑوں کا گلہ،

اور یوٹ یا آدمیوں کا گودہ یا پرندوں

کا ٹوٹہ۔ ج - رَعَالٌ -

الرَّعْلُ - عمدہ مال۔

الرَّعْلُ - گلہ سے نکلا ہوا جانور۔

رَعَمَ دَنَ رَعْمًا - الشَّيْءُ نَكَبَانِي

كَرْنَا - الشَّمْسُ - سورج کے

ڈوبنے کا انتظار کرنا۔

رَعَمَتْ دَفَّ وَرَعَمَتْ دَنَ

رَعَامَةً - وَارَعَمَتْ -

الشَّاقَةُ - بکری کا بہت دہلا ہونا اور

اس کی ناک سے ریشہ ہنا۔ صفت

(رَعُومٌ)

رَعَمَ - الشَّاقَةُ - بکری کی ناک کی

ریشہ صاف کرنا۔

الرَّعَامُ - نظر کی تیزی۔

الرَّعَامُ - رینٹ، ناک، رطوبت۔ ج -

أَرَعَمَتْ -

الرَّعَامَةُ وَالرَّعَامِي - ایک قسم کا درخت

الرَّعْمُ - چربی۔ أَمْرٌ رَعِيٌّ - بچہ۔

الرَّعُومُ - نفس۔

رَعَنَ دَنَ رَعْنًا وَرَعَنَ دَسَ رَعْنًا -

وَرَعَنَ دَنَ رَعُونَةً - يَهْوِفُ

هَوْنًا - ڈھیلا ہونا۔ بے احتیاط ہونا۔

کلام میں بے وقوف اور طیش والا ہونا۔

صفت (رَعْنٌ)

رَعَنَتْهُ دَنَ رَعْنًا - الشَّمْسُ

دھوپ سے دماغ کا متاثر ہونا اور

بیہوش ہونا۔

الرَّعْنُ - مص - پہاڑ کی چوٹی۔ بلند پہاڑ۔

ج - رَعَانٌ وَرَعُونٌ -

الرَّعْنُ - چوٹی والا۔

الرَّعُونُ - تیز حرکت کرنے والا، یا بہت

حرکت کرنے والا۔ رات کی تاریکی۔

رَعَابُ رَعَوًا وَرَعُوَةً - اپنی

جہالت و غلطی سے باز آنا۔ اسم۔

(الرَّعْوَى وَالرَّعْيَا)

الرَّعْوَى الرُّعَوَاءُ - مِنَ الْجَهْلِ

جہالت سے کرنا۔ باز رہنا۔ صفت

(رُعَوِيٌّ) رجوع کرنا۔

رَعَى يَرَعِي رَعِيًا وَرَعِيَةً وَ

مَرَعَى - الْمَاشِيَةُ الْكَلَاءُ

مولیشی کا گھاس چرنا۔ الْمَاشِيَةُ

مولیشی کو گھاس چرانا۔ الْفُجُومُ -

ستارے دیکھنا۔ الْآمِيْرُ

رَعِيَّتُهُ رَعِيَةً - اپنی رعایا پر سیاست

رانی کرنا۔ اَنْتَظَامُ مَمْلَكَتِ الْخِطَامِ دِيْنَا -

عَلَيْهِ حُرْمَتُ كَالْحَافِظِ كَرْنَا -

الْأَمْرُ - حفاظت کرنا۔

رَاعَى مَرَاعَاةً - الْجُومُ - ستاروں

کو دیکھنا۔ الْأَمْرُ - حفاظت کرنا۔

نتیجہ انجام پر نظر رکھنا۔ الرَّجُلُ -

کسی کے حق پر نگاہ رکھنا۔ رَاعَتْ

الْأَرْضُ - زمین کا بہت چراگاہ والی ہونا۔

رَاعِيَّتُهُ سَمِيحِي - میں نے اس کی

طرف کان لگایا۔ هُوَ لَا يَدْرِي إِلَى

قَوْلِ أَحَدٍ - یعنی وہ کسی کی بات

پر دھیان نہیں دیتا۔ الْحِمَارُ

الحُمْرُ - گدھے کا اور گدھوں کے

ساتھ چرنا۔

أَرَعَى إِرْعَاءًا - الْمَاشِيَةُ - مولیشی

کو چرانا۔ الْمَكَانُ - کسی جگہ کو

چراگاہ بنانا۔ عَلَيْهِ - کسی پر

شفقت و مہربانی کرنا۔ اُرْعِيْتُہ
سَمِعْتُہ میں نے اس کی بات کو سنا۔
اُرْعَيْتِ الارض۔ زمین کا بہت
چراگاہ والی ہونا۔ اَللّٰهُ الْمَاشِيَةُ
چری اگانا۔

رَعَاكَ تَرْعِيَةً کسی سے رَعَاكَ اللّٰهُ کنا
ارتعست و ترعت۔ الما شیتہ
جانوروں کا چرنا۔

استرعى استرعاه۔ الما شیتہ

موشی چرانے کے لیے کنا۔ ک

ما شیتہ کسی سے موشی کی رکھوال

کے لیے کنا۔ چنانچہ مثل مشہور ہے:

”مَنْ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ فَقَدْ

خَلَعَ“ جس نے بھیڑیے سے رکھوال

کے لیے خواہش کی، اس نے ظلم کیا۔

یہ مثل اس شخص کے حق میں بولی جاتی

ہے جو غائن سے امانت داری کی امید

رکھے۔ ک۔ کسی سے کان رکھنے

کے لیے کنا۔ توجہ کرنے کی خواہش

کرنا۔ ک الشئ۔ کسی شے کی

حفاظت کے لیے کنا۔

الرعیۃ۔ چرائی۔

الرعیۃ والرعیۃ والرعیۃ والرعیۃ

حفاظت۔

الرعیۃ۔ مص۔ کہتے ہیں: رَعِيَا لَكَ

خدا تم کو بچائے رکھے۔

الرعیۃ۔ گھاس۔ ج۔ اُرْعَاهُ۔ رعی

الحمام والایل۔ دو پودوں کے نام ہیں

الرعیۃ۔ چرنے والے موشی۔ وہ جانور جو

چرائے جانیں۔ کسی حاکم کی ماتحت رعایا۔

ج۔ رَعَايَا۔

رَعِيَّةُ الْمَلِكِ رَعَايَا۔ بادشاہ کے

فرمانبردار لوگ۔

الرعیۃ والی والرعیۃ والی۔ لوگوں کے ارد گرد

چرنے والے موشی۔ الرعیۃ والی

عام لوگوں کے موشی۔

الرعیۃ والی۔ بادشاہ کے موشی۔

الرعیۃ۔ ف۔ بہت الفت کرنے والا۔ حاکم

پروانا۔ موشی کا نگہبان۔ ج۔ رَعَاكَ

وَرَعِيَاكَ وَرَعَاهُ وَرَعَاهُ

مؤنث رَاعِيَةً۔ ج۔ رَوَّاح۔ رَاعِيَةً

الشَّيْبَ وَرَوَّاحِيْنَهُ بِرُحَايَةٍ كَأَنَّهُ

رَاعِي الْجَوَارِءِ وَرَاعِي النَّعَالِجِ

دوستاروں کے نام۔ رَاعِي الْبُسْتَانِ

وَرَاعِيَةَ الْاَتْنِ بُدِيُوں کی ایک

قسم۔ رَاعِيَةَ الرَّاسِ۔ جوں۔

الرعیۃ۔ مص۔ گھاس۔ ج۔ مَرَّاح۔

(و۔ والمَرَّاحَةُ) چراگاہ۔

الرعیۃ۔ چرایا ہوا۔ حفاظت کیا ہوا۔ محکم

رَعِي (ر) رَعِيًا وَرَعِيًا وَرَعِيَةً

فِيْہ۔ چاہنا خواہش کرنا۔ محبت کرنا۔

عَنْہ۔ منہ پھیرنا۔ چھوڑنا۔

اعراض کرنا۔ روگردانی کرنا۔ یہ

عَنْ غَيْرِہ۔ کسی کو کسی پر نفیلت

وہتری دینا۔

رَعِي (ر) رَعِيًا وَرَعِيًا وَرَعِيَةً

وَرَعِيَةً وَرَعِيَةً وَرَعِيَةً

وَرَعِيًا وَرَعِيًا۔ اَلِيْہ

عاجزی و خوری سے مانگنا۔ التجا کرنا۔

رَعَب دك رَعِيًا وَرَعِيًا وَ

رَعِيَةً۔ بسیار خور ہونا۔ پیٹ ہونا

الوادی۔ وادی میں بہت

پانی سما جانا۔ وادی کا کشادہ و فراخ

ہونا۔

رَعِيَةً وَرَعِيَةً۔ فی الشئ۔

رغبت دلانا۔ خواہش پیدا کرنا۔

رَعِيَةً کسی کو اس کی مرغوب شے

دینا۔ کہتے ہیں: اُرْعَبَ اللّٰهُ

قَدْرَكَ اللّٰهُ تعالیٰ تمہاری قدرو

شان کو بلند کرے۔

اُرْتَعَبَ۔ فِیْہ۔ رغبت کرنا۔ خواہش

کرنا۔ چاہنا۔

تَرَاْعَبَ الْوَادِي۔ وادی کا فراخ و

کشادہ ہونا۔ النَّاسُ فِي الْخَيْرِ

لوگوں کا بھلائی و خیر کی خواہش کرنا۔

رغبت رکھنا۔

الرغبت۔ مرغوب۔

الرغبت والرغبت۔ مِنَ الْاَرْضِ

بارش کے پانی کو بہت جذب کرنے وال

زمین۔ طَرِيقُ رَغْبٍ۔ کشادہ و

فراخ راستہ۔

الرغبت۔ بہت کھاؤ۔ حَوْضُ رَغْبٍ

قَرَارُ حَوْضٍ۔ سِقَاءُ رَغْبٍ۔

کشادہ مشک۔ حِمْلُ رَغْبٍ۔

بھاری بوجھ۔ فَرَسُ رَغْبٍ

الخطوة کشادہ قدم والا گھوڑا۔

ج۔ رَغَابٍ۔

الرغوب۔ راعب۔

الرغوب۔ مرغوب شے، بڑی بخشش

ج۔ رَغَائِبٍ۔

الرغائب۔ خواہشیں۔

رَغَبَتْ (ف) رَغْبًا۔ الْوَلَدَ اُمُّہ

بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ ک۔

کسی کے بار بار نیزہ مارنا۔ الْقَوْمُ

قُلَانًا۔ قوم کا کسی سے مانگ مانگ

کر سارا مال ختم کر دینا۔

رَغَبَتْ۔ بہت دینے کی وجہ سے کسی کا

مال سے تہی دست ہونا۔ پستان کی

رگوں میں درد ہونا۔

اُرْعَتِ الْمَرْأَةُ۔ دائی پلائی ہونا۔

وَلَدَهَا۔ اپنے بچہ کو دودھ

پلانا۔ صفت رَغَوْتُ وَرَغَوْتُ

وَمُورَغْتُ اُرْعَشْتُ۔ پستان

کی رگوں میں نیزہ مارنا۔ بار بار نیزہ مارنا

اُرْتَعَتْ۔ الْوَلَدَ اُمُّہ۔ بچہ کا

دَعَنَ دُونَ دَعْنَةٍ — دَعْنَةٍ — طبع کرنا۔
 دَلَجَ کرنا — دَلَجَةٍ — کان لگانا۔
 دَارَعَنَهُ — طبع دلا دلا کر دانا۔ دَارَعَنَ
 الامر۔ آسان و سہل کرنا۔ الیہ
 کان لگانا۔ دَارَعَنَ يَفْلَانٍ۔ کسی کی
 اطاعت کرنا۔

الْأَرْغَنُ۔ وَالْأَرْغَنُونَ۔ آرگن۔ ایک
 قسم باجہ کا نام ہے۔

دَعَادَنَ (دَعَاءُ)۔ البعیدُ أو النعامُ
 أو الصبیحُ۔ اونٹ کا بیلانا یا شتر
 مرغ اور بچو کا بیچنا چلانا۔ الصبیحُ
 بچہ کا بہت رونا۔ الرَعْدُ۔
 بادل کا زور سے گرجنا، گرجنا۔

دَعَادَنَ (رَعَا) وَرَعَى تَرْغِيَةً وَ
 أَرَعَى أَرْعَاءً — اللبَنُ وَ
 تَعْوَهُ۔ دودھ وغیرہ میں جھاگ اٹھنا
 کہتے ہیں "أَرَعَى الرَّجُلُ وَأَزْبَلَ"
 آدمی غصہ سے چیخا اور اس نے دھکی
 دی۔ "أَتَيْتُهُ فَمَا اتَّعَى وَلَا أَرَعَى"
 میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھ کو
 نہ بکری دی۔ نہ اونٹنی۔ کسی
 کو ذلیل کرنا، مغلوب کرنا۔ وَرَعَى
 حُلَانًا کسی کو غضب ناک کرنا۔

إِرْتَعَى — اللبَنُ۔ دودھ سے جھاگ
 اتارنا۔ الرَعْوَةُ۔ جھاگ پینا۔
 الرِعْوَةُ۔ ج۔ رَعَى وَرَعَى وَالرَّغَايَةُ
 وَالرَّغَايَةُ وَالرَّغَاوَةُ۔ وَ
 الرِّغَاوِيُّ وَالرِّغَاوِيُّ — مِنَ
 اللبَنِ۔ دودھ کے جھاگ۔

الرَّاعِيَةُ۔ اونٹنی، کہتے ہیں "مَا لَهُ
 تَارَعِيَةٌ وَلَا رَاعِيَةٌ" یعنی نہ اس
 کے پاس بکری ہے نہ اونٹنی۔

الرِّغَاوَةُ۔ کف گیر۔
 الرِّغَاوِيُّ۔ مبہم کلام۔

رَفَّ دَنَ دَقًّا۔ بہت کھانا۔

کسی کی خدمت کرنا۔ احسان بھلائی
 کرنا۔ ہر قسم کی خدمت کرنے میں کوشش
 کرنا۔ الناسُ یہ۔ لوگوں کا کسی
 کو گھیر لینا۔ بہ۔ آرام و عزت
 کرنا۔ البیتُ۔ گھر کے لیے
 اگنی بنانا۔ اِلٰی کَذَا۔ خوش
 ہونا۔ رَفَّتْ عَيْنُهُ۔ آنکھ کا
 پھڑکنا۔ البرقُ۔ بجلی کا چمکنا
 کوندنا۔ شَفَقِيهِ۔ ہونٹ

چوسنا۔ اللبَنُ۔ دودھ ہر دن
 پینا۔ ثَوْبَهُ۔ دوسرا کپڑا لگا کر
 اس کو نیچے سے کشادہ کرنا۔
 الدَّائِيَةُ۔ جانور کا بھوسہ کھلانا۔

رَفَّ (رَضَ) رَفًّا وَرَفِيقًا وَرَفَّتْ۔

النَّبَاتُ۔ سبزہ کا بیلانا۔ رَفَّتْ
 الْعَيْنُ۔ آنکھ کا پھڑکنا۔ رَفَّ
 الْبَرْقُ۔ بجلی کا کوندنا۔ رَفَّ
 لَوْنُهُ۔ رنگ کا چمکنا، تمتانا۔
 أَرَفَّ۔ أَرْفَاقًا۔ الطَّائِرُ۔ پرندے
 کا اپنے بازوؤں کو پھیلانا۔

الرَّافُ۔ مص۔ اگنی یا مچان ریت کی
 باریک نوک مہشی کا کلمہ یا پرندوں
 کا ٹولہ۔ بکریوں کا بارہ۔ نرم و ملائم کپڑا
 ج۔ رَفُوفٌ وَرَفَافٌ۔

الرِّافُ۔ اونٹوں کا کلمہ، ہر روز کا پینا
 کہتے ہیں "أَخَذْتُ الرَّحْلَ رِفًّا"
 اس کو ہر روز سنا آ یا۔

الرُّفْتُ وَالرُّفَّةُ۔ بھوسہ، بھوسہ کا
 چھڑا۔

الرُّفَاتُ۔ بھوسہ کا چھڑا۔
 الرِّفِيفُ۔ چھت۔ فراخ سالی۔

رَفِيٌّ۔ رَفِيفُ الْاَخْلَاقِ۔ اچھے
 اخلاق والا نوجوان۔

الرِّفَافُ۔ مبالغہ، زیادہ چمک دار۔
 کہتے ہیں "ثَغُرَ رِفَافٌ" یعنی چمکدار

وانت

رَفَّ الثَّوْبُ۔ کپڑے کی پھٹن کو سینا
 رَفَّوْ کرنا۔ کسی کو خوف سے
 تسکین دینا۔ مدد دینا۔ بَيْنَهُمْ
 صلح کرنا۔ السَّفِينَةُ کشتی یا جہاز
 کو کنارے کے قریب کرنا۔

رَفَّاهُ۔ تَرْفِئَةً وَتَرْفِيقًا۔ کسی کو
 مبارک باد دینا۔ اور بِالرَّفَاءِ وَ
 الْبَنِيْنِ۔ کہنا ان الفاظ سے شادی
 شدہ کو عادی جاتی ہے۔ یعنی تم
 دونوں کے درمیان اتفاق و اتحاد رہے
 اور تم کو اولاد نصیب ہو۔

أَرَفَّ۔ إِلَيْهِ۔ قریب ہونا پناہ لینا۔

الشَّيْءُ إِلَيْهِ۔ قریب کر دینا۔
 الرَّجُلُ۔ نگہ کرنا۔ السَّفِينَةُ
 کشتی کا کنارہ سے قریب ہونا۔

أَرَفَّاهُ وَرَافَّاهُ۔ مدارات سے پیش
 آنا۔ مدد کرنا۔

تَرَفَّاهُ۔ الْقَوْمُ۔ عَلَى الشَّيْءِ۔ آپس
 میں اتفاق کرنا۔ باہم مدد کرنا۔

الرَّفَاءُ۔ اتفاق۔
 الْمَرْفَءُ وَالْمَرْفَءُ۔ مِنَ الْبَحْرِ۔
 بندرگاہ۔ ج۔ مَرَفِئٌ۔

رَفَّتْ دَنَ رَفَّتًا۔ الشَّيْءُ۔ تَوَرَّنَا
 کوٹنا۔ ر۔ وَارَفَّتْ وَتَرَفَّتْ
 ٹوٹنا۔ کٹنا۔ الْعُظْمُ۔ چھڑا۔

چھڑا ہونا۔ الْحَبْلُ۔ رسی کٹ جانا۔

الرَّفْتُ۔ بھوسہ۔ ہر چیز کو توڑنے والا۔
 الرُّفَاتُ۔ چھڑا۔ ریزہ۔ ہر ٹوٹی چیز۔

بوسہ۔

رَفَّتْ دَقًّا وَرَفَّتْ دَسَ رَفًّا۔
 وَارَفَّتْ۔ فی کلامہ فحش گوئی کرنا۔

الرَّفَثُ۔ مص۔ فحش کلام۔
 رَفَّحَهُ۔ نئی شادی والے کو مبارک باد

دینا۔



رَفَضَ - عَيْشٌ رَافِضٌ - آسودہ زندگی۔
الرَّفُوضُ - مصائب۔
رَفَضَ (رض) رَفْضًا وَارْقَدَ - دینا۔
عطیہ بخشنا۔ مدد دینا۔ رَفَضَ الْحَاطِطَ
دیوار کو سہارا دینا ٹیک لگانا۔ رَفَضَ
الدَّائِئَةَ وَعَلَيْهَا ارْقَدَ لَهَا۔
جانور کے لیے پالان بنانا، اس پر
پالان ڈالنا۔

رَاقِدٌ - مدد دینا۔
رَفَضَ - تَعْظِيمُ كَرْنَا - سردار بنانا۔
تَرَاقَدَ - الْقَوْمُ - باہم مدد کرنا۔
ارْقَدَ - الْمَالُ - مال کمانا حاصل کرنا۔
اسْتَرْفَضَ - بَخْشِشٌ چاہنا۔ مدد طلب کرنا۔
الرَّفْضُ - مَص - حصہ۔ بڑا پیالہ کہتے ہیں
”أَرِيقُ رَفْضٌ“
الرَّفْضُ - بَخْشِشٌ - مدد۔ بڑا پیالہ۔ ج۔

الرَّفْضَةُ - لوگوں کا گروہ۔ ج۔ رَفْضٌ۔
الرَّافِضُ دُفَا بادشاہ کی عدم موجودگی میں اس
کا جانشین قائم مقام۔ ج۔ رَفْضٌ۔
الرَّافِضَاتُ - دھبہ و فرات۔
الرَّافِضَةُ - پل کے اوپر چھت کی لکڑی۔ عوام
اس کو وَصَلَةٌ کہتے ہیں۔ ج۔ رَوَافِضُ
الرَّفَادَةُ - زخم کی پٹی۔ زین۔ زین یا کچاوہ
کے سہارے کی چیز۔ نَاقَةُ رَفُودٍ
وہ اونٹنی جو ایک ہی بار دودھ سے
بڑا پیالہ بھر دے۔ ج۔ رَفْضٌ۔
الرَّفُودُ وَالْمَرْفُودُ - مدد۔ ج۔
مَرَاوِدُ۔

الرَّفُودُ - بڑا پیالہ۔ ج۔ مَرَاوِدُ۔
الرَّافِضُ - بکریاں جو موسم سرما د گرمیاں
لگاتار دودھ دیں۔
رَفَرَفَ - الطَّائِرُ - پرند کا پھڑپھڑانا۔
الشَّيْءُ - آواز کرنا۔
الرَّفُوفُ - لکڑی وغیرہ کی الگنی یا مچان جس

پر گھر کی چیزیں رکھتے ہیں، خیمہ کا دامن
زرہ کے کنارے۔ زرہ کا ٹکٹے والا
حصہ۔ درخت یا پودے کی ٹکٹے والی
شاخ۔ ہرزاند موڑی ہوئی شے۔
فرش، بچھونا، تکیہ۔ ریشمی باریک کپڑا
کپڑے کا ٹکڑا جو پردوں اور خیموں
کے زیریں حصے میں سیا جاتا ہے۔
ج۔ رَفَارِطٌ۔

الرَّفَارِطُ - ایک قسم کا پرند۔
رَفَسَةُ (رض) رَفْسًا وَرَفَسًا سِينَهُ
پر مارنا۔ البَعِيرُ - اونٹ کے
پاؤں باندھنا۔ اللَّحْمُ وَنَحْوُهُ -
گوشت وغیرہ کا قیمہ بنانا۔
الرِّفَاسُ - اونٹ کے پاؤں میں باندھنے
کی رسی۔ الرِّفْسَةُ - سینہ پر لات
مارنا رَاقَاةٌ رَفُوسٌ وہ اونٹنی
بولات مارے۔

رَفَشَ (رض) رَفْشًا - خوب کھانا پینا۔
الرَّقْمُ - گیسوں کو سیلچ سے اٹھا کر
لے جانا۔ الشَّيْءُ - کوٹنا۔ د۔
رَفُوشًا فِي الْأَمْرِ - کشادہ ہونا۔
رَفَشَ (رض) رَفْشًا - چوڑے کانوں والا
ہونا۔ صفت (رَفْشٌ) - مَوْنُثٌ
رَفْشَاءُ - ج۔ رَفْشٌ

رَفْشٌ - رَجَبَتَةٌ - داڑھی میں گنگھا کرنا۔
الرَّقَاشُ - بیچے سے غلہ کا ڈھیر لگانے والا۔
الرَّفْشُ - مَص - بیچے۔ کشتی کا چپو۔
الرِّفْشَةُ - بیلیجہ۔
رَفَضَ - تَرَاقَصُوا الْمَاءَ - گھاٹ پر
باری باری سے اترنا۔ ہر آنے والے کو
رَفِضٌ کہتے ہیں۔

ارْتَفَضَ - السَّعُو - بھاڑ پڑھنا۔ گرانی ہونا۔
الرَّفْصَةُ - پانی پینے کی باری۔
رَفَضَ (رض) رَفْضًا وَرَفْضًا - الشَّيْءُ
پھینکنا۔ چھوڑنا۔ صفت (رَفَضٌ)

ج۔ رَافِضُونَ وَرَفَضَةٌ - و
رَفَاضٌ (د) وَارْقَضَ (الْإِبِلَ -
اونٹوں کو چراگاہ میں متفرق چھوڑ
دینا۔ وَرَفَضَ وَارْقَضَ -
الْوَادِي - وادی کا کشادہ ہونا۔
رَفَضَتْ (ن) رَفُوضًا - الْإِبِلَ -
اونٹوں کا چرواہے کے سامنے تشریف
ہو کر چرنا۔ جُدا جُدا چرنا۔

تَرَفَضَ - بکھرا۔ متفرق ہونا۔ ٹوٹنا۔
الدَّمْعُ - آنسوؤں کا بہنا۔ ٹپکنا۔
ارْقَضَ الدَّمْعُ - آنسو بہنا۔ ٹپکنا۔
الْجَوْحُ - زخم کا پھٹ جانا۔ پیپ بھانا
الشَّيْءُ - متفرق ہونا۔ اور اسی سے ہے
ارْقَضَ النَّاسُ عَنَّهُ - لوگ اس کو چھوڑ
کر ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ -
الْوَجْعُ - درد ملنا۔

اسْتَرْفَضَ - الْوَادِي - وادی کا
کشادہ ہونا۔
الرَّفَضُ - مَص - ج۔ رَفَاضٌ -
وَالرَّفَضُ - ج۔ ارْقَاضٌ - اونٹوں یا
ہرنیوں کا بکھرا ہوا گلہ و ریوڑ۔ چیز کا بکھرا
ہوا حصہ۔ تھوڑی چیز کہتے ہیں ”رَفِي
الْفَرْيَةِ رَفَضٌ مِّنْ مَّاءٍ“ مشک
میں تھوڑا سا پانی ہے۔

الرَّافِضَةُ - لڑائی وغیرہ میں اپنے پیشوا و
رہنما کو چھوڑ دینے والا گروہ۔ ج۔
رَوَافِضُ - اسی سے ان کا یہ قول
ہے ”لَا خَيْرَ فِي الرَوَافِضِ“ یعنی
روافض میں بھلائی بالکل نہیں شیعوں
کی ایک جماعت۔ نسبت کے لیے۔
(رَافِضِيٌّ)

الرِّفَاضُ - پریشان راستے۔
الرِّفَاضُ - مِّنَ الشَّيْءِ - چیز کے ٹکڑے
رینے۔
الرَّفُوضُ - عَلِيْهِ عَلِيْہِ بکھرا ہوا گھاس۔

رُفُوضُ النَّاسِ - لوگوں کے گروہ -
 رُفُوضُ الْأَرْضِ - غیر ملوکہ زمین -
 جَعَلِي - بننے کے بعد چھوڑی ہوئی زمین -
 السَّرْفِيزُ - چھوڑا ہوا پسینہ - ٹوٹا ہوا نیزہ -
 الْمَرْفِضُ - مِنَ الْوَادِي - سیلاب بننے کی جگہ سے مرفض -
 رَفَعَ (رَفْعًا) - الشَّيْءَ - اٹھانا -
 - فَلَا تَأْتِ عَلَيَّ صَاحِبُهُ فِي الْمَجْلِسِ - کسی کو مجلس میں آگے بڑھانا - الْكَلِمَةُ - کلمہ پر رفع کی علامت لگانا - الشَّيْءَ - لینا -
 الشَّيْءَ فِي حَزْنٍ - چھپانا -
 الْجَسَلُ فِي السَّيْرِ - چلنے میں تیزی کرنا - الْقَوْمُ - ملک میں بڑھتے چلے جانا - الْجَسَلُ - اونٹ کو تیز ہانکنا - الْحَدِيثُ - حدیث کی سند پہلے قائل تک پہنچانا - رَفَعًا وَرَفَاعًا وَرَفَاعَةً - الْقَوْمُ - الزَّسْعَ - لوگوں کا فصل کو کٹائی کے بعد کھلیان میں لے جانا - د -
 رَفَعًا وَرَفَاعًا زَيْدًا - لے اٹھنا -
 الْحَاكِمُ - فیصلے کے لیے حاکم کے پاس لے جانا - إِلَى السُّلْطَانِ بادشاہ کے پاس لے جانا - نزدیک کرنا -
 "هَذَا أَمْرٌ يَرْفَعُ الرَّأْسَ" - یہ امر سر بلندی نصیب کرتا ہے یعنی مجھ کو بزرگی کا سبب بن جاتا ہے "فُلَانٌ لَا يَرْفَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ" - یعنی فلاں بہت سرفر کرتا ہے -
 رَفَعَ دَكْ رَفْعَةً وَرَفَاعَةً - قدیں بلند ہونا - بلند درجہ والا ہونا - صفت (رَفِيعٌ) وَرَفَعَ رَفَاعَةً - بلند آواز ہونا - الثَّوْبُ - کپڑے کا باریک ہونا - صفت (سَرَفِيعٌ)

رَفَعَ لَهُ - الشَّيْءَ - دور سے دیکھنا -
 رَفَعَهُ - بلند کرنا - رَفَعَ الْقَوْمَ - قوم کو لڑائی سے دور کرنا -
 رَفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ - حاکم کے سامنے کسی کی شکایت کر کے حاضر کرنا -
 کسی سے تعلقات قطع کر لینا - يَهْمُ - رحم کرنا -
 تَرَفَعَ - اپنی برتری جتانا - غرور کا اظہار کرنا -
 - الشَّيْءَ - أَوِ الرَّجُلَ - بلند کرنا - تَرَفَعًا - ایک دوسرے کو بلند کرنا - اٹھانا -
 - الْخَصْمَانِ إِلَى الْحَاكِمِ - دو خصموں کا حاکم کے پاس اپنا مقدمہ لے جانا -
 رَفَعَ بَلَدًا - بلند ہونا - السَّيْفُ - بھاؤ کا چڑھنا - النَّهَارُ - دن کا لمبا ہونا - دن چڑھنا - مِنْ بَيْنِهِمَا الْخَصَامُ - جھگڑا رفع دفع ہونا -
 اسْتَرْفَعُ - الشَّيْءَ - اونچا کرنے کی درخواست کرنا - اٹھانے کو کہنا -
 الْخَوَانُ - دسترخوان کا کھانے سے خالی ہو کر اٹھائے جانے کے قریب ہونا -
 الرَّافِعُ (رَفْعًا) - بَرَقَ رَفِيعًا - چمکنے والی بجلی -
 الرَّفِيعَةُ - مص - قدر و منزلت کی بلندی -
 الرَّفَاعُ وَالرَّفَاعُ - کھیتی میں دانہ کا موٹا پڑنا - کٹی ہوئی فصل کو کھلیان میں لے جانا -
 الرَّفَاعَةُ وَالرَّفَاعَةُ وَالرَّفَاعَةُ - مِنَ الصَّوْتِ - آواز کی بلندی اور کڑختگی -
 الرَّفِيعَةُ - حاکم کے روبرو پیش کیا ہوا معاملہ -
 الْمَرْفُوعُ - مفع - ایک قسم کی تیز دوڑ -
 - مِنَ الْكَلَامِ - بلند آواز کی

گفتگو - وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ -
 عِنْدَ الْحَدِيثَيْنِ - وہ حدیث جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر پہنچی ہو - الْمَرْفُوعُ - وہ چیز جس سے اٹھایا جائے -
 رَفَعَ دَكْ رَفَاعَةً - الْعَيْشُ - زندگی کا فراخ و خوشگوار ہونا - صفت (رَفِيعٌ وَرَفِيعٌ وَارْفَعُ) -
 أَرْفَعُ - لَهُ الْمَعَالِشَ - وسعت و فراخی دینا -
 تَرَفَعُ - آسودگی و خوشحالی سے زندگی بسر کرنا -
 الرَّفْعُ - ج - أَرْفَعُ وَرَفَاعًا - وادی کا بہت بڑا حصہ - بہت مٹی والی زمین طرف گوشہ - ج - أَرْفَعُ وَرَفُوعًا - جسم میں جمع ہونے کی جگہ - جوار کا بھوسہ -
 أَرْفَاعُ النَّاسِ - کینے گھٹیا لوگ -
 أَرْفَعُ وَالرَّفَاعَةُ وَالرَّفَاعَةُ - زندگی کی آسودہ حالی و خوشگوار -
 الْمَرْفَعُ - مائتوں اور انوں کی جڑیں داس کا واحد نہیں -
 رَفَعَهُ (رَفْعًا) - نفع پہنچانا - مدد کرنا -
 کہنی پر مارنا - النَّاقَةُ - اونٹنی کا بازو باندھنا - الْعَمَلُ - کام کو مضبوطی سے کرنا -
 رَفَقَ وَرَفِقَ (رَفَقًا) وَرَفِقَ (رَفَقًا) وَرَفِقًا وَرَفِقًا -
 مِرْفَقًا - بِلَهْ دَلَهْ وَعَلَيْهِ - نرمی اور مہربانی سے پیش آنا -
 رَفَقَ (رَفَقًا) - الْبَحِيرُ - اونٹ کا پہلو سے مڑی ہوئی کہنی والا ہونا -
 صفت (رَفِيقٌ) - رَفِقَ دَكْ رَفَاعَةً - الرجل - رفیق و ساتھی ہونا -
 رَفَقَهُ - ساتھی بننا -
 أَرْفَقَهُ - نرمی کا سلوک کرنا - نفع دینا -



تَرْفَقَ - پہلے - نرم برتاؤ کرنا - علیہ
سہارا لینا۔

تَرَافَقَ - الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے کا
ساتھی ہونا۔

ارْتَفَقَ - کہنی یا تکیہ پر ٹیک لگانا - مدد
چاہنا - الاناء - برتن کا بھرتا۔

القوم - سفر میں سنگ ساتھ ہونا۔
بہلہ - نفع اٹھانا۔

اسْتَرْفَقَ - ساتھ چاہنا - نفع چاہنا۔
مہربانی طلب کرنا۔

تَمَرَّقَ - کہنی پر آرام لینا - کہنی پکڑنا۔
الرفق - مص - نرم برتاؤ - مہربانی کا

سلوک وہ چیز جس سے مدد ملی جائے۔
الرفق - مص - نرم، آسان، اُمر

دِفْقُ الْبَغْيَةِ - یہ کام آسانی سے
حاصل ہونے والا ہے۔ الرفق -

دودھ کی نالیوں میں نرمی۔
الرفقة والرفقة والرفقة و

الرفقة - ساتھیوں کی جماعت۔
ج - رفاق و رفیق و رفیق و

أَرْفَاقٌ -
الرفقة - نرمی، مہربانی حسن سلوک۔

المرفاق - اونٹ کے بازو باندھنے کی رسی۔
ج - رفیق۔

الرفیق - ساتھی، مہربان - ج - رفقاء
المرفق والمرفق - کہنی - وہ چیز

جس سے سہارا لیں - ج - مرفق۔
المرفق - وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے

اور اسی سے ہے مرفق الدار
گھر کے منافع یعنی لوازمات خانہ جیسے

کنواں، باورچی خانہ، پانچانہ وغیرہ۔
مرفق البلاذ - اہل ملک کی نفع

اندوزی کی چیزیں۔
المرفقة - چھوٹا تکیہ۔
المرفق والمرفق - تکیہ لگانے کی

جگہ، آرام گاہ۔

المرفق - بھرا ہوا، ثابت۔

رَفَلْ دَنْ رَفْلًا وَرَفْلًا وَرَفْلًا -
دامن گھسیٹے ہوئے تکر سے چلنا، ہاتھ

ہلاتے ہوئے چلنا - صفت مذکر۔
رَفِلْ (صفت مؤنث رَفِلَةٌ)

رَفَلْ دَنْ رَفْلًا وَرَفْلًا (دس)
رَفْلًا - بد لباس اور کام میں

بے سلیقہ ہونا - صفت (رَفِلْ)
وَرَفِلْ (مؤنث رَفِلَةٌ)

أَرْفَلْ - دامن گھسیٹنا - ناز سے چلنا۔
ثِيَابُهُ - کپڑوں کو لٹکانا۔

رَفَلَهُ - تغلیم کرنا اور سردار بنانا - مالک
بنانا - ذلیل کرنا - الإزار - ازار

لٹکانا اور ناز سے چلنا۔
تَرَفَّلَ - تکر سے ناز کی چال چلنا۔

تَرَفَّلَ - علیہ - سردار و رئیس ہونا۔
الرفل - دامن۔

الرفل - مص - من الیوم - کنویں کی
گہرائی میں تھوڑا سا پانی۔

الرفل - لمبے دامن والا - لمبی دم کا گھوڑا۔
بہت گوشت والا - کشادہ کپڑا -

آسودہ زندگی۔
المرفال - من الرجال - دامن

گھسیٹے ہوئے ناز سے چلنے والا مرد
یا عورت۔

رَفَلْ دَنْ رَفْلًا وَرَفْلًا وَرَفْلًا -
زندگی کا خوشگوار و ہامزہ ہونا - صفت

(رَفِلَةٌ وَرَفِلَةٌ)
رَفِلَتْ الْإِبِلُ - اونٹوں کا ہر روز جب

چاہیں پانی پر آنا - صفت (رَفِلَةٌ)
ج - رَوَافَةُ -

رَفَلَتْ دَنْ رَفْلًا وَرَفْلًا وَرَفْلًا و
رَفَاهَةً - العیش - زندگی کا
خوشگوار و آسودہ ہونا - صفت (رَفِلَةٌ)

وَرَفِيلٌ -

رَفَلَتْ وَأَرْفَلَتْ - الرَّجُلُ - کسی کو
فراخ و آسودہ حال بنانا۔ رَفَلَتْ عَنْهُ

مہلت دینا۔ أَرْفَلَتْ وَرَفَلَتْ -
الواجب الیہ - اونٹوں کو حسب مرضی

پانی پر آنے دینا۔ أَرْفَعَتْ الْإِبِلُ -
اونٹوں کا پانی کے نزدیک رہنا۔ أَرْفَعَتْ

القوم - قوم کے مویشی کا حسب مرضی
نذرانہ پانی پر آنا۔

رَفِلَتْ - عَنْهُ - کسی کی تنگی اور رنج کو
دور کیا جانا۔

أَرْفَعَتْ وَتَرَفَعَتْ وَاسْتَرْفَعَتْ - آرام
لینا۔

الرَفْعُ - مص - جھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت۔
الرَفْعَةُ - رحم - مہربانی۔

رَفَعَتْ دَنْ رَفْعًا - الثوب - کپڑے کی
درستی - مرمت کرنا۔ رَفَعَتْ - صفت

دَلَفٍ - ج - رَفَعَتْ - صفت مفعولی۔
رَفَعَتْ - کسی کے خوف کو

فرو کرنا، کسی کا فاقہ دور کرنا۔
رَفَعَتْ تَرْفِيعَةً - العریس - شادی

شدہ کو میاں بیوی میں میل ملاپ اور
اولاد کی دعا دینا۔

رَفَعَتْ رَفْعًا وَمَرَاخَةً - الرَّجُلُ -
موافقت کرنا۔

أَرْفَعَتْ - الیہ - کسی سے پناہ لینا۔
تَرَافَعَتْ - القوم و علی الأمر - کسی امر

پر ہا جم موافقت کرنا۔
الرِفَاعُ - اتفاق و اتحاد۔

الرَفِي - لمبے اور ڈھیلے کانوں والا مؤنث
رَفَعَتْ - ج - رَفَعَتْ -

رَفَعَتْ رَفْعَةً - پتلا ہونا - لکھ - کسی پر
رحم کرنا - ترس کھانا - وَجْهَةٌ - شرم

وجہ کرنا - الرَّجُلُ - بد حال و
کنگال ہونا - رَفَعَتْ عِظَامَهُ -

بوڑھا اور سن رسیدہ ہونا۔
رَقَّ (رض، رَقًا) - العَبْدُ - غلام ہونا

یا رہنا۔
رَقَّقَهُ - پتلا کرنا۔ رَقَّقَ اللَّفْظَ -

لفظ نرمی سے نکالنا۔ الْكَلَامُ
پاکیزہ گفتگو کرنا۔ مَشْبُوعٌ - نرم
رفتار سے چلنا۔ مَا بَيْنَ الْقَوْمِ -
فساد ڈالنا۔

أَرَقَّ - الشَّيْءُ - پتلا کرنا۔ الْوَاعِظُ
قَلْبُهُ - واعظ کا کسی کے دل کو نرم

کر دینا۔ الرَّجُلُ - کم مال والا
ہونا۔ الْعَبْدُ - انکسار کا باریک

چھلکے والا اور زیادہ رس والا ہونا۔
الْعَبْدُ - غلام کا مالک ہونا۔

تَرَقَّقَ - الشَّيْءُ - پتلا ہونا۔ لَهُ
کسی پر ترس کھانا، رحم کھانا۔

اُسْتَرَقَّ - الشَّيْءُ - پتلا ہونا۔ الْعَبْدُ
غلام کا مالک ہونا۔ اللَّيْلُ رَاتٍ

کا اکثر حصہ گزر جانا۔ الْمَاءُ - پانی
کا پایاب ہونا۔

الرَّقِيقُ - مَصِي - غلامی، پتلی شے، لکھنے
کے لیے پتلی کھال، سفید کاغذ کا تختہ

درخت کے پتے یا جانور کے لیے
آسانی سے حاصل ہونے والی شاخیں

الرَّقِيقُ - لکھنے کے کام کا پتلا چمڑا۔ کاغذ
کا سفید تختہ۔ پتلا۔ مگر چھ سے مشابہ

ایک آبی جانور۔ چاتل یا نہ کچھوا۔ ج
رُقُوقٌ -

الرَّقِيقُ - وَالرَّقِيقُ وَالرَّقِيقُ - نرم
کشادہ زمین۔

الرَّقِيقُ - کمزوری، پتلا پن، باریکی، کھانے
کا پتلا پن۔

الرَّقِيقَةُ - پانی سے بھر کر خشک ہو جانے
والی زمین۔ ج۔ رَقَاقٌ -

الرَّقِيقَةُ - رحمت، شرم، باریکی۔

رَقَّةُ الْعَيْشِ - زندگی کی آسودگی
الرَّقَاقُ - صحرا، بیابان، نرم مٹی کی ہموار

زمین۔ یا وہ زمین جس کا پانی خشک
ہو گیا ہو۔

الرَّقَاقُ - پتلا۔ پتلی روٹی۔ واحد
(الرَّقَاقَةُ) نرم مٹی والی ہموار

کشادہ زمین یا وہ زمین جس کا پانی
خشک ہو گیا ہو۔

الرَّقِيقُ - پتلا۔ اِرْقَاءُ - مَوْنٌ (رَقِيقَةٌ)
ج۔ رَقَاقٌ - رَقِيقُ الْمَعَانِي - نفیس

مطلب والا۔ "عَيْشٌ رَقِيقٌ"
الحَوَاشِي "نوشحال اور آسودہ زندگی

"رَجُلٌ رَقِيقٌ الْحَالِ" کنگال آدمی
"لَفْظٌ رَقِيقٌ" آسان و شیریں لفظ

الرَّقِيقُ - غلام (واحد و جمع کے لیے
یکساں آتے ہیں) کبھی اس کی جمع اِرْقَاءُ

لاتے ہیں۔ مَوْنٌ کے لیے رَقِيقٌ یا
رَقِيقَةٌ کہتے ہیں۔ رَقِيقُ الْأَنْفِ

ناک کا نرم حصہ۔ الرَّقِيقَانِ - ناک
کے نتھنوں کے کنارے۔

مَرَقٌ - الْبَطْنُ پیٹ کا نرم و پتلا حصہ
الرَّقِيقُ - چھڑی پتلی روٹی۔

الرَّقَاقُ - بیل۔
الرَّقِيقُ - رَقِيقٌ، پتلا۔

رَقَاءُ رَقَاءُ رَقَاءُ وَرَقَاءُ - الدَّمْعُ
آؤں کا دم۔ آنسو کا خشک ہونا، یا

خون کا رکنا۔ رَقَاءُ - بَيْبَحُهُ
صلح کرنا، فساد ڈالنا۔ فِي الدَّارِ حَبْرٌ

سیرھی پر چڑھنا۔
اِرْقَاءُ - الدَّمْعُ آؤں کا دم۔ خون یا

آنسو کو خشک کرنا۔
الرَّقُوعُ - خون بند کرنے والی چیز قوم کے

درمیان صلح کرانے والا۔
الرَّقَاقَةُ - الرَّقَاقَةُ - سیرھی، زمین۔

رَقَبَةُ (رَقَبَةٌ) رَقُوبًا وَرَقُوبًا وَرَقَابَةً

وَرَقَبَانَا - وَرَقَبَةٌ وَرَقَبَةٌ
نُكْرَانِي

کرنا، نگہبانی کرنا۔ انتظار کرنا۔ ڈرانا۔
- النَجْمَةُ ستاروں کی دیکھ بھال

کرنا۔ کُروْن میں رسی ڈالنا۔
رَقَبَةُ - نگہبانی کرنا۔ رَاقِبٌ اللَّهُ فِي

أَمْرِهِ - خدا سے ڈرنا۔
أَرَقَبَهُ - الدَّارُ مکان وغیرہ تازہ بست

دے دینا۔ أَرَقَبَهُ الرُّقْبَى - کسی کے
لیے رقبی کرنا۔

تَرَقَّبَهُ وَارْتَقَّبَهُ - انتظار کرنا۔ اِرْتَقَّبَ
الْمَكَانَ - پڑھنا۔

تَرَقَّبَا - ایک دوسرے کی نگرانی کرنا، نگہبانی
رکھنا۔

الرَّقَبُ - گردن کی موٹائی۔
الرُّقْبَى - گھرو وغیرہ۔ کسی کو اس شرط پر دینا

کہ اگر دینے والا پہلے مر جائے تو گھر لینے
والے کا ہے اور اگر دینے والا پہلے مرے تو

گھر دینے والے کے قبضہ میں پھر لوٹ آئے
الرَّقَبَةُ - احتیاط، بچاؤ، نگہبانی۔ خوف۔

کہتے ہیں "وَرَقَبْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَقَبَتِهِ"
جبکہ کسی کے آباؤ اجداد مجدد و بزرگی کے

مالک نہ ہوں۔
الرَّقَبَةُ - گردن یا اس کے پیچھے کا حصہ (گدی)

ج۔ رَقَابٌ وَرَقَبَاتٌ وَرَقَبٌ -
وَأَرَقَبُ - غلام۔ کہ جزاء اشرف بول

کر کل مراد لیا ہے۔
الرَّقَبَةُ - چیتے کے شکار کے لیے گڑھا۔

جس طرح رُقْبِيَّةٌ، شیر کے شکار کے
لیے تیار کردہ گڑھے کہتے ہیں۔

الرَّقَبُ - مَوْنٌ رَقَبَاءُ - وَالرَّقَبَانُ
وَالرَّقَبَانِي - موٹی گردن والا۔

الرَّقُوبَةُ - میراث کے لیے اپنے شوہر کی
موت کا انتظار کرنے والی عورت۔ وہ

عورت جس کا بچہ مر گیا ہو یا وہ جس کی



اولاد نہ جیتی ہو۔

أَمَدُ الرُّقُوبِ - مصیبت۔

الْوَقِيبُ - ج۔ رُقْبَاءُ نگہبان، محافظ

منتظر۔ رَقِيبُ الْجَيْشِ - دیدبان۔

پس ماندگان، چچا زاد بھائی، جوئے کے

تیروں میں سے تیسرا تیر، ایک ستارہ

کا نام۔ ج۔ رُقْبٌ وَرَقِيبَاتُ ایک

نہایت زہریلا سانپ، ”هُوَ رَقِيبٌ

نَفْسِهِ“ وہ خود ہی اپنے کردار کا

جا بچ کنندہ ہے، دوسروں کو ملامت

کرنے کا موقع نہیں دیتا۔

الرُّقَابَةُ - وہ نوکر و خادم جو مالک کی غیر

موجودگی میں اسباب کی نگرانی کرے۔

الْمَرْقَبُ وَالْمَرْقَبَةُ - نگرانی کرنے کی

اوپنی جگہ، نگرانی کا بُرج، فوجی چوکی۔

ج۔ مَرَاقِبُ -

الْمَرْقَبُ - ستاروں اور اجرام فلکیہ کی دیکھ

بھال کے لیے آلہ۔ دور بین۔

رَقْعٌ - مالک، مال کا اچھا انتظام کرنے والا۔

تَدْقَعُ - لَعْيَالِيہ - اپنے عیال کے لیے

کمانا۔

ارْتَقَحَ - زیادہ ہونا۔

الرَّقَاحَةُ - کٹائی، تجارت۔ کہتے ہیں۔

”هُوَ رَاقِعٌ أَهْلِيهِ“ وہ اہل و عیال

کے لیے کمانے والا ہے۔

الرَّقَاحِيُّ - تاجر، سوداگر۔

رَقْدٌ (رَقْدٌ) رَقْدًا وَرَقْدًا -

سونا۔ صفت (رَاقِدٌ) ج۔ رُقُودٌ

وَرَقْدٌ - السُّوقُ - بازار کا سرد پڑنا۔

الْحَرُّ - گرمی کا گھٹنا۔ عَنِ

الْأَمْرِ - کام سے غافل ہونا۔ عَنِ

ضَيْفِهِ - مہمان کی خبر گیری نہ کرنا۔

أَرَقْدَهُ - سُلا - اَرَقْدَ بِالْمَكَانِ -

اقامت کرنا۔

تَرَاقَدَ - سوتا ہوا ناپا ہر ہونا۔ القوم

عَلَى فُلَانٍ - قوم کا کسی کے خلاف

مدد دینا۔

ارْقَدَ - اَرَقْدًا - جلدی کرنا۔

اسْتَرْقَدَ - نیند کا غلبہ ہونا۔

الرَّقْدَةُ - نیند۔ أَحْصَانَتْنَا رَقْدَةً

مِنَ الْحَرِّ - تقریباً دس روز کی گرمی

ہم کو پہنچی۔

الرَّقْدَةُ وَالْيَرْقُودُ - بہت سونے والا۔

الرَّقُودُ - ہمیشہ سونے والا۔ اِمْرَأَةٌ

رَقُودٌ الضُّحَى - چاشت تک سونے

والی عورت، یعنی بہت خوش حال و

آسودہ حال عورت۔

الرَّقْدَانُ - بکری کے بچہ وغیرہ کی کلیل۔

الرَّاقُودُ - بڑا مٹکا۔ ج۔ رَدَاقِيْدُ

الْتَرَقِيْدُ ایک قسم کی چال۔ تَرَقِيْدُ

الْبَيْضِ - مرغی کے نیچے اٹڑے رکھنا۔

الْمَدْقُدُ - خواب آلود۔ ج۔ مَرَاقِدُ -

الْمَدْقُدُ خواب آور دوا۔ صاف کھلا

راستہ۔

رَقْرَقَ - الْمَاءُ - پانی چھڑکنا۔ الْعَيْنُ

آنکھ سے آنسو بہانا۔ الْحَمْرُ

شراب میں پانی ملانا۔ الطَّيْبُ

فِي الثَّوْبِ - کپڑے میں خوشبو

لگانا۔

تَرَقَّرَقَ - الْمَاءُ - پانی کا ہلکے ہلکے

بہنا۔ چمکنا، آنا جانا۔ الْعَيْنُ

آنکھ کا آنسو بہانا۔ الدَّمْعُ -

آنکھ کا آنسو سے ڈبڈبانا۔ الشَّمْسُ

آفتاب کا گھومتا ہوا دکھائی دینا۔

الرَّقَارِقُ - چمکے والا۔ مِنَ الدَّمْعِ

آنکھ میں ڈبڈبانے والا آنسو۔

مِنَ السَّحَابِ - آنے جانے والا

بادل۔

الرَّقَارِقُ - وادی یا سمندر کا رقیق پانی۔

بَارِيك کپڑا۔ آبدار تلوار۔

رَقَزْدَن، رَقْزًا - ناچنا۔ الْعِرْقُ

رگ کا اچھلنا۔

الرَّقَازُ - ناچنے والا۔

رَقَشَةُ (ن) رَقْشًا - نقش کرنا۔

الكَلَامُ - لکھنا، سجانا۔

رَقَشَ - الْكَلَامَ - لکھنا سجانا۔ گھڑنا۔

الصَّحِيفَةُ - سطر پی کرنا۔

الرَّجُلُ - کسی پر عتاب کرنا۔

الرَّجُلُ - چغلی کھانا۔

تَرَقَّشَ - مزین ہونا۔ سجانا۔

ارْتَقَشَ - حُسن و زینت دکھانا۔ الْحَيْشُ

لشکر کا لڑائی میں مل جانا۔ آپس میں گتھ جانا

الْأَرَقَشُ - سیاہ و سفید نقطوں والا نمونہ

رَقْشَاءُ - الرَقْشُ وَالْوَقِيشَةُ -

ایک رنگ جس میں ٹیلا لاپن اور سیاہی

ہو۔

الرَّقْشَاءُ - کوٹیا لاسانپ۔ ایک کیڑا۔

اونٹ کے منہ کے جھاگ۔

الرَّقْشُ - سانپ۔

رَقَصَ (ن) رَقْصًا - ناچنا، اضطراب کرنا۔

النَّيْدُ - نیند کا جوش میں آنا۔

فِي الْكَلَامِ - تیزی سے بولنا۔

رَقْصًا وَرَقْصًا وَرَقْصًا -

الْجَمَلُ - اونٹ کا دوڑنا۔

رَقْصُهُ وَارْقَصَهُ - ناچنا۔

ارْتَقَصَ - السَّعْرُ - بھوکا چڑھنا۔

تَرَقَّصَ - الشَّيْءُ - چیز کا جلدی جلدی اوپر

نیچے ہونا۔

الرَّقَاصُ - بہت ناچنے والا۔ اور اسی سے

ہے ”رَقَاصُ السَّاعَةِ“ گھڑی کا لنگر

(پنڈولم)

الرَّقَاصَةُ - ناچنے والی۔ عربوں کے ایک

کھیل کا نام۔ بنجر زمین۔ شَعْرٌ

مُرَقَّصٌ - بچا دینے والا شعر، یعنی اپنی

خوبی بیان سے سننے والے کو وجد میں

لانس والا۔
 رَقِطًا - رَقِطًا - سیاہ پرسفید یا سفید
 پر سیاہ نقطے والا ہونا۔
 رَقِطًا - عَلَى الثَّوْبِ - کپڑے پر روشنائی
 کے چھینٹے وے کراس کو داغدار کرنا۔
 تَرَقَّطًا - تَرَقَّطًا وَارَقَّطًا - اِرْقِطًا طًا۔
 وَاِرْقَاطًا - اِرْقِطًا طًا - سیاہ
 سفید دھبوں والا ہونا۔ صفت (اِرْقَطُ)
 مَوْنُثٌ - رَقِطَاءٌ - ج - رُقُطٌ -
 اَلْاِرْقُطُ - چیتا۔
 الرُقِطَةُ - سیاہ پرسفید یا سفید پر
 سیاہ داغ۔
 الرُقِطَاءُ - فتنہ و فساد۔
 رَقْعٌ (ف) رَقْعًا - الثَّوْبُ - کپڑے
 پر پیوند لگانا۔ الْغَرَضُ بِسَهْمِهِ
 نشانہ پر تیر مارنا۔ ذَنْبُكَ
 بِالسَّوْطِ كَوْرًا دُمَ پَر مارنا۔ فِي
 السَّيْرِ - تیز چلنا۔ الرَّجُلُ - سچو
 کرنا۔ الشَّيْخُ - بوڑھے کا تھیلو
 سے سہا لے کر اٹھنا۔
 رَقْعٌ (ن) رَقَاعَةً - احمق و بے شرم ہونا
 صفت (رَقِيعٌ وَارَقْعٌ وَ
 مَرَقَعَانُ)
 رَقْعٌ - تَرَقِيعًا - الثَّوْبُ - کپڑے پر
 پیوند لگانا، کتے ہیں۔ رَقْعٌ دُنْيَاةٌ
 بَاخِرَتِيہ - اس نے دنیا کی درستی
 آخرت سے کی۔
 رَاقِعٌ الْخَمَرُ - شراب کا عادی بننا۔
 اَرَقْعُ - الثَّوْبُ - کپڑے کا قابل مرمت ہونا
 پیرنہ کے قابل ہونا۔ الرَّجُلُ
 حماقت و بے وقوفی ظاہر کرنا۔
 تَوَقَّعُ - اِلْسَادُ - ارزائی کے زمانہ میں
 ملک میں گمائی کرنا۔
 اسْتَرْقَعُ - الثَّوْبُ - کپڑے کا قابل
 مرمت ہونا۔

الرَّقْعُ - اگلوں کے نزدیک ساتوں آسمان۔
 الرُّقْعَةُ - نشانے پر تیر کے لگنے کی آواز۔
 الرُّقْعَةُ - کاغذ کی لکھی ہوئی پرچی، تحریر کا
 پرزہ۔ کپڑے کا پیوند۔
 رُقْعَةُ الشَّطْرَنِجِ - شطرنج کی بساط۔
 رُقْعَةُ الْغَرَمِ - نشانہ۔ رُقْعَةُ
 الْاَرْضِ - قطعہ زمین۔ رُقْعَةُ
 الشَّيْءِ - چیز کی اصل و حقیقت۔
 ج - رُقْعٌ وَرَقَاعٌ - کتے ہیں۔ فِي
 هَذَا الْجَمَلِ رُقْعَةٌ مِنْ
 الْجُرْبِ - اس اونٹ میں خارش
 کا آغاز ہے۔
 الرُّقْعَاءُ - اَذْقَعُ کاموٹ۔ بَقَرَةٌ
 رَقْعَاءُ - مختلف رنگوں والی گائے۔
 الرَّقِيعُ - آسمان، پہلا آسمان۔ ج۔
 اَرْقِعَةٌ - جَوْعٌ يَرْقُوْعُ -
 سخت بھوک۔
 الْمُرَقَّعُ - کپڑے میں پیوند لگانے کی
 جگہ۔ کتے ہیں۔ "لَا اُرَى فِيهِ
 مَرْتَقَعًا" اس میں عیب گیری، یا
 اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں پاتا۔
 اَرَقَلَ - جلدی چلنا۔ الْمَفَارِظَةُ - بیابان
 کو طے کرنا۔ عبور کرنا۔
 الرُّقْلَةُ - لمبی کھجور۔ ج - رَقَالٌ وَرَقْلٌ -
 الرَّاوِلُ - درخت خرماء پر چڑھنے کی رسی۔
 اِلْمُرْقَالُ وَالْمُرْقِلُ وَالْمُرْقِلَةُ -
 مِنْ الْاِبِلِ - تیز رفتار اونٹ۔
 ج - مَرَاقِيلٌ وَمَرَاقِلٌ وَمُرْقَلَاتٌ
 رَقْمَدَن، رَقْمَا وَرَقْمَا - لکھنا۔
 الْكِتَابُ - کتاب پر اعراب و نقطے
 لگانا۔ رَقْمَا الثَّوْبُ - کپڑے
 پر دھاریاں ڈالنا۔ الْبَعِيْرُ
 اونٹ کے داغ لگانا۔ الْخُبْرُ
 روٹی پر نقش بنانا۔ کتے ہیں "فَلَانٌ
 يَذْقُمُ عَلَى الْمَاءِ" یعنی فلاح

شخص کاموں میں غضب کی سمجھ رکھتا ہے۔
 الرَّقْعُ - مص نقش و نگار والا دھاری دار
 کپڑا یا دھاری دار چادر۔ مُر - ج
 اَزْقَامٌ وَرَقُومٌ - اَلْاَزْقَامُ
 الْهِنْدِيَّةُ - ہند سے۔
 الرَّقْمُ وَالرَّقْمُ وَبَنَتُ الرَّقْمِ
 مصیبت۔
 الرَّقْمَةُ - باغ۔ وادی کا پہلو۔ وادی میں
 پانی کے اکٹھے ہونے کی جگہ۔ خَبَازِي -
 الرَّقِيقُ - کتاب، لکھا ہوا۔
 اَلْاَرَقْمُ - ایک بہت زہریلا سانپ۔
 سیاہ سفید داغوں والا سانپ۔ ج
 اَرَاقِمُ مادہ رَقَشَاء - کہلاتی ہے
 ن رَقْمَاء - قَلَمٌ -
 الرَّقْمُ وَالرَّقْمَةُ - رقم کارنگ۔
 اِلْمُرَقْمُ - کلک، قلم نقش کرنے کا آلہ۔
 داغ لگانے کا آلہ۔ ج - مَرَاقِمُ -
 الْمَرَقُومُ - مفع "كِتَابٌ مَرَقُومٌ" واضح
 لکھی ہوئی کتاب۔ تَوْرٌ مَرَقُومٌ
 الْقَوَائِمُ - وہ بیل جس کی ٹانگوں پر
 سیاہ دھاریاں یا داغ ہوں۔
 اَرْضٌ مَرَقُومَةٌ - تھوڑے پودوں
 والی زمین۔
 رَقَنْتٌ (ن) رَقْنًا - الْحَاوِيَةُ سِلَاحُ
 مہندی لگانا۔
 رَقْنَتُهُ - لکھنا۔ رَقْنُ الْكِتَابِ - کتاب
 کو مزین کرنا۔ سَجَانَا - قریب قریب
 سطرین کرنا۔ الْخَطُّ - نقطہ لگانا۔
 (ر) وَارَقْنِ، لِحْدَتُهُ - داڑھی
 پر خضاب لگانا۔
 اَرَقْنُ وَتَرَقْنُ وَارْتَقْنُ وَ
 اسْتَرَقْنُ خضاب لگا ہوا ہونا۔
 (مہندی یا زعفران سے)
 الرَّقِيقُ وَالْمَرَقُونُ - لکھا ہوا۔
 الرِّقَانُ وَالرَّقُونُ وَالْاَرَقَانُ -



ہندی یا نہ عفران۔

الرَّقِیُّ وَالرَّقِیَّةُ - ریت کا گول ٹیلہ۔

رَقِی دَض، رَقِیًّا وَرَقِیًّا - الْجَبَلُ

وَفِیْهِ وَالِیْہ - پہاڑ پر چڑھنا۔

لَارُقُ عَلٰی ظَلْعِکَ - یعنی اپنے نفس

پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اور

طاقت کے مطابق چڑھو۔

رَقِی دَض، رَقِیًّا وَرَقِیًّا وَرَقِیَّةً -

عُ وَعَلِیْہ - نفع رسائی یا ضرر رسائی

کے لیے ٹوٹا یا منتر کرنا۔

رَقَّاهُ تَرْقِیَّةً - اٹھانا۔ چڑھنا۔

لَارْتَقِی - اِرْتَقَاءً وَتَرْقِی تَرْقِیًّا -

الْجَبَلُ وَفِیْہ وَالِیْہ - پہاڑ پر

چڑھنا۔ فِی السَّلْمِ - بیڑھی کے

ڈنڈوں پر چڑھنا۔ بِلَہِ الْأَمْرِ

کسی امر کی انتہا کو پہنچنا۔ تَرْقِی

الرَّجُلُ - ہنس کی بڑی پر مارنا۔

تَرَّاقِی أَمْرُهُمْ إِلَى الْفَسَادِ - پیچ جانا۔

اسْتَرْقَاهُ - منتر یا جادو کرنے کو کہنا۔

تَعْوِذًا لِّکُنَا - لکے کسی کے لیے منتر

دے کو طلب کرنا۔ تَعْوِذًا لِّکُنَا

وَالِیْہ - لکے کو تلاش کرنا۔

الرَّقِیَّةُ - منتر، افسوس، تعویذ۔ ج۔ رُقِی

وَرَقِیَّاتٌ وَرَقِیَّاتٌ -

الْوَاقِی - فَا - منتر کرنے والا۔ تَعْوِذًا لِّکُنَا

وَالِیْہ - ج۔ رَقَّاهُ وَرَقِیَّاتٌ -

مَوْنُث - رَقِیَّةً - ج۔ رَسَاقِی -

تاس میں مبالغہ کی ہے مَوْنُث اور

مَذَرَک کے لیے رَاقِیہ کہتے ہیں۔

الرَّقَّاءُ - جھاڑ پھونک اور تعویذ گندے میں بڑا

ماہر۔ پہاڑ پر بہت چڑھنے والا۔

الرَّقِیَّةُ - ہنس کی بڑی۔

الرَّقِی - وَالْمَرْقَاةُ وَالْمَرْقَاةُ -

سیڑھی کا پایہ۔ ج۔ مَرَّاقِی -

الرَّقِی - چڑھنے کی جگہ۔

رَكَّ دَض، رَكَّاهُ وَرَكَّاهُ وَرَكَّاهُ

مَکْزُور ہونا۔ پٹلا ہونا۔ الرَّجُلُ - کم علم

وَعَقْل ہونا۔

رَكَّ دَض، رَكَّاهُ - الشَّیْءُ - ایک دوسرے

پر چبنا۔ رَكَّ الْأَمْرُ فِی عُنُقِہ -

کوئی کام کسی کے گلے ڈالنا۔ الشَّیْءُ

بَیْسِدٌ - چیز کو ماتہ سے دبا کر اس کا

حجم بچانا۔

رَكَّاهُ - وَأَرَكَّ السَّحَابُ - بادل کا

تھوڑی اور ہلکی بارش برسانا۔

أَرَكَّ - کسی جگہ کا پھوار سے سیراب ہونا۔

أَرَّتْكَ - کانپنا۔ فِی الْأَمْرِ - کسی امر

میں شک کرنا۔

اسْتَرْكَّ - کسی کو کمزور پانا۔ یا سمجھنا۔

الرَّكَّ وَالرَّكَّ - ج۔ رَكَّاهُ وَأَرَكَّاهُ

وَالرَّكَّاهُ وَالرَّكَّاهُ - ہلکی بارش

نہی نہی بوندوں کی بارش۔

الرَّكَّاهُ وَالرَّكَّاهُ - عقل ورائے کی

کمزوری۔

الرَّكَّاهُ - ج۔ رَكَّاهُ وَرَكَّاهُ -

عقل ورائے میں کمزور۔ ڈھیلا ڈھالا

کم ہمت۔ الرَّكَّاهُ - مِّنْ

الْكَلَامِ - بھسبھسا کلام۔ رَجُلٌ

رَكَّاهُ الْعِلْمِ - کم علم آدمی۔

ثَوْبٌ رَكَّاهُ النَّسِیجِ - پھدڑی

بناوٹ کا کپڑا۔

الرَّكَّاهُ - (مذکر و مؤنث) کمزور عقل۔ ج۔

رَكَّاهُ -

الرَّكَّاهُ - ضَعْف۔

رَكَّاهُ دَض، رَكَّاهُ وَرَكَّاهُ -

الدَّائِبَةُ وَعَلَى الدَّائِبَةِ سَوَارٌ

ہونا۔ الْبَحْرُ - سمندر میں سفر

کرنا۔ الْطَّرِيقُ - راستہ پر

چلنا۔ اِتْرَا - کسی کا پیچھا کرنا۔

هَوَّاهُ - خواہش کا تابع ہونا۔

رَكَّاهُ - بے سوچے لا پرواہی سے

کسی کام کو کر گزرنے والا۔

الدَّائِبُ - کسی گناہ کا مرتکب ہونا۔

الْخَطَرُ - اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا

رَكَّاهُ الدَّائِبِينَ مَقْرُوضٌ ہونا۔

رَكَّاهُ دَض، رَكَّاهُ - بڑے زانوں والا ہونا۔

مَوْنُث گھٹنے والا ہونا۔

رَكَّاهُ دَض، رَكَّاهُ - گھٹنے پر مارنا۔

رَكَّاهُ - گھٹنے میں درد والا۔

رَكَّاهُ - الشَّیْءُ - بعض کو بعض پر رکھنا۔

تَرْتِیب سے رکھنا۔ چُننا۔ عَالِی الْفَرَسِ

سوار کرنا۔

أَرَكَّاهُ - سواری دینا۔ الْمَهْرُ -

بچھیرے کا سواری دینے کے قابل ہونا۔

تَرْكَّاهُ - ترکیب پانا۔

أَرَكَّاهُ - سوار ہونا۔ الدَّائِبُ - گناہ

کرنا۔ الْأَمْرُ - بے دھڑک گھس

پڑنا۔ الدَّائِبُ - قرض زیادہ لینا۔

تَرَكَّاهُ - تہ بہ تہ ہونا۔

الرَّكَّاهُ - اونٹ یا گھوڑوں کے سوار جن

کی تعداد دس یا دس سے زائد ہو۔ ج۔

رَكَّاهُ وَرَكَّاهُ -

الرَّكَّاهُ - رَكَّاهُ الدَّائِبَةِ کا اسم۔

سوار ہونے کی ایک قسم۔

الرَّكَّاهُ - گھٹنا۔ زانو۔ ج۔ رَكَّاهُ و

رَكَّاهُ وَرَكَّاهُ وَرَكَّاهُ -

الرَّكَّاهُ - سوار کے پیچھے رکھنے

کی جگہ۔ ج۔ رَكَّاهُ - الرَّكَّاهُ -

سواری کے اونٹ۔ واحد (راجلہ)

ج۔ رَكَّاهُ وَرَكَّاهُ وَرَكَّاهُ -

رَكَّاهُ السَّحَابِ - ہوائیں۔

الرَّكَّاهُ - بہت سوار ہونے والا۔ (د)

وَالرَّكَّاهُ (سواری کا اونٹ سواری

ج۔ رَكَّاهُ - طَرِيقٌ رَكَّاهُ -

بہت چلتا ہوا راستہ۔

الرَّكَابُ - بہت سوار ہونے والا۔ مؤنث (رُكَايَةُ)

الرَّكِيْبُ - فا۔ سوار۔ جہ۔ رُكَايَةُ۔
وَرَكْبَانٌ وَرُكُوبٌ وَرَكْبَةٌ وَ
رَكْبٌ - وَرَكْبَةٌ - مؤنث۔
رَاكِبَةٌ - جہ رُوْلِكِبُ - پہاڑ
کی چوٹی۔ مسافر۔

الرَّكِيْبُ - جڑی ہوئی چیز جیسے بگ
انگوٹھی میں، دو سواروں میں سے پھلا
سوار۔ سوار۔ کھیتی۔ رُكْبُ رَكِيْبُ
نہر وغیرہ کے کنارے پر کھجوروں کی
قطار۔

الرَّكِيْبُ - موٹے بڑے گھٹنے والا۔
الرَّكِيْبُ - مصی۔ سواری۔ خواہ تری کی
یا شکاری کی۔ جہ۔ مَرَاكِبُ -
الرَّكِيْبُ - منع۔ اصل - "فُلَانٌ
كَوَيْدُ الرُّكْبِ" فلاں کہیم
الاصل ہے۔ الرُّكْبُ الرُّكْبُ -
نہ جانتے ہوئے اپنے کو جاننے والا
سمجھنا۔

الرَّكُوْبُ - منع۔ سواری۔ جہ۔ مَرَاكِبُ -
رَكْحَرَفٌ (رَف) رَكْحَادٌ رَكْحَمٌ - عَلَى
الشَّيْءِ وَالْيَيْدِ - کسی سے سہارا
لینا ٹیک لگانا۔ (رُكُوْحًا) إِلَيْهِ
کسی کی طرف جھکنا۔ مائل ہونا۔

الرَّكْحُ - عَلَيْهِ - سہارا لینا - ھُ
إِلَيْهِ - ٹیک لگانا۔ کہتے ہیں۔
أَرَكْحْتُ إِلَيْهِ ظَهْرِي - میں نے
اس سے اپنی پیٹھ ٹکائی۔

تَرَكَّحَ - فِي الْمَعِيشَةِ - وسعت معیشت
کے لیے تصرف کرنا۔ فِي الدَّارِ -
گھر میں فراخی و کشادگی کرنا -
بِالْمَكَانِ - کسی جگہ ٹھہرنا۔ اقامت
کرنا۔

الرُّكْحُ - پہاڑ کی نکلی ہوئی نوک۔ پہاڑ

کا پہلو۔ بنیاد۔ گھر کا صحن۔ جہ۔
أَرْكَاحٌ -

الرُّكْحَةُ - گھر کا صحن۔ جہ۔ رُكْحٌ -
الرُّكْحَاءُ - سخت اٹھی ہوئی زمین
رَكَدَ (رَن) رُكُودًا - الْمَاءُ أَوْ الرِّيْحُ -
پانی یا ہوا کا ٹھہرنا - الْمِيْزَانُ
ترازو کا برابر ہونا - عَصِيْرُ

الْعَنْبِ - انگور کے پتوں کا جوش
ٹھنڈا ہونا - الْعَرُ وَالْثُفْلُ
تلچھٹ کا بیٹھ جانا - الشَّمْسُ
سورج کا سر پد آکر ٹھہرنا معلوم ہونا۔
کہتے ہیں: "رَكَدَتْ رِيْحُهَا"
یعنی ان کی حکومت جاتی رہی۔

الرَّكِيْدُ - فا۔ ٹھہرا ہوا، بے حرکت۔
الرُّكُودُ - بھرا ہوا پیالہ۔ ہمیشہ دودھ دینے
والی اونٹنی۔

الرَّكِيْدُ - ٹھہرنے کی جگہیں۔
رَكْرَكٌ - رُكْرَكَةٌ - الشَّيْءُ - کمزور
ہونا - الرَّجُلُ - بزدل ہونا۔
رَكَزَ (رَض) رَكْزًا - الرُّمَحُ وَنَحْوُهَا -

نیزہ وغیرہ کو زمین میں گاڑنا۔ دفن کرنا
- الْحَدَقُ - رگ کا پھڑکنا حرکت
کرنا۔

رَكَزَ - بمعنى رَكَزَ -
أَرْكَزَ - الْمُعْدِنُ - کان کا دھات
والی ہونا - الرَّجُلُ - کسی کا
کان ہونا۔

أَرَكَزَ - الْحَدَقُ - رگ کا حرکت کرنا۔
- الشَّيْءُ - چیز کا اپنی جگہ جھنڈا۔
- عَلَى الْعَصَا - لٹائی پر سہارا
لینا۔ ٹیک لگانا۔

الرُّكْزُ - دھیمی آواز - آہٹ - دانا۔
فیاض آدمی۔

الرُّكْزَةُ - ہوشیاری، حکمت، دانائی۔
نجات عقل۔ کہتے ہیں: "كَلَّمْتُهُ"

فَمَا رَأَيْتُ لَهُ رُكْزَةً - میں نے
اس سے بات چیت کی تو اس کو ٹھوس
عقل کا نہیں پایا - الرُّكْزَةُ - جڑے
اکھڑا ہوا کھجور کا درخت۔

الرُّكْزَةُ - زمین کے اندر دفن کیے ہوئے
جواہر۔ جہ۔ رُكَايَةُ -
الرُّكَايَةُ - زمین کے اندر قندقی گڑی، ہوئی
دھاتیں۔ واحد۔ (رُكْزَةُ) جہ۔

أَرْكَنَةٌ وَرُكْنَانٌ -
الرُّكْنُ - دائرے کے بیچ کا نقطہ۔ جس
سے محیط دائرہ تک سب خطوط برابر
نکلیں، آدمی کے رہنے کی جگہ۔ دار
السلطنت۔ جہ۔ مَرَاكِنُ -

مَرَاكِزُ الْأَسْتَانَ - دانت اُگنے کی
جگہیں۔

رَكْسٌ (رَن) رُكْسًا - الشَّيْءُ - الٹ دینا۔
- الْبَعِيْرُ - اونٹ کے رکاس
باندھنا۔

أَسْرَكَسَ - اوندھا کرنا - الشَّيْءُ -
چیز کو پہلی حالت کی طرف لوٹانا -
الثَّوْبُ فِي الصَّبْحِ - کپڑے کو رنگ
میں دوبارہ ڈھونا - الْجَارِيَةُ
رُكْی کے پستان ابھرنا بظاہر ہونا۔

تَرَاكَسَ - الشَّجَرُ - بالوں کا تہ بہ تہ ہونا۔
أَرْتَكَسَ - اوندھا ہونا۔ تکلیف سے نجات
پاکر پھر تکلیف میں پڑنا۔ بھیڑ کرنا۔
فِي مَكَانِهِ - اپنی جگہ اقامت کرنا۔

الرُّكْسُ - گندگی - مِنَ النَّاسِ
لوگوں کی جماعت۔ گرنے کے بعد مرمت
کی ہوئی عمارت۔ پُل -

الرُّكَايَةُ - وہ رسی جو اونٹ کی نکیل میں
باندھ کر اس کے گھٹنے میں باندھ دیتے
ہیں۔

الرُّكَايَةُ وَالرُّكَايَةُ - زمین میں گاڑی

ہوئی میخ، کیل وغیرہ۔
الرکبیس۔ اوندھا، کمزور۔

رکض (ن) رکضاً۔ دوڑنا۔ پاؤں ہلانا۔

۸۔ ہٹانا۔ القوس برجلین۔

گھوڑے کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگانا۔

الطائرین جناحین۔ پرندے

کا بازو پھڑپھڑانا۔ منہ تیزی

سے بھاگ جانا۔ التجوم۔

ستاروں کا چلنا۔ القوس۔

تیر اندازی کرنا۔ الاسمن او

الثوب۔ زمین یا کپڑے کو پاؤں سے

ملنا۔

رکض۔ القدس۔ گھوڑے کا دوڑایا

جانا۔ صفت۔ (مَرَكُوضٌ)

رَاكضٌ مُدَاكضَةٌ گھوڑ دوڑ میں

مقابلہ کرنا۔

تَرَكَضَ۔ القوم۔ ساتھ ساتھ دوڑنا

اَزْكَضَ۔ حرکت کرنا۔ بے قرار ہونا۔

۱۔ الجینین۔ بچہ کا اپنی ماں

کے پیٹ میں حرکت کرنا۔ پھرنا۔

الرجل فی أمرہ۔ اپنے معاملہ

میں تصرف کرنا۔ خیلہم

الید۔ دوڑانا۔ القوم فی

المیدان۔ دوڑنے میں مقابلہ کرنا۔

الرکضۃ حرکت، دھکا۔

الرکوض تیز۔

المِرْکَاضُ۔ بہت دوڑنے والا۔

المِرْکَاضُ۔ وہ چیز جس سے آگ سلگائی

جائے۔ من القوس۔ کمان کا

کنارہ۔ جر۔ مَرَاكِضُ۔

مَرَاكِضُ الخوض۔ حوض کے کنارے جن

سے پانی اُڑھ کر لائے۔

رکھ (ن) رُکْعًا و رُکُوعًا۔ سر جھکانا۔

بدن خم کرنا۔ اِلٰی اللہ۔ اللہ

کے سامنے پست ہونا۔ الرجل

محتاج و بد حال ہونا۔ اوندھا ہونا۔

رُکْعًا وَاَرْکَعًا۔ جھکانا۔ رکوع

کرنا۔

الرَاکِعُ۔ نا۔ سر جھکانے والا۔ ج۔

رَاکِعُونَ و رُکْعٌ و رُکُوعٌ۔

الرُکْعَةُ وَالرُکُوعَةُ۔ زمین کا گرنا۔

ایک رکعت۔

رُکْلَةٌ (ن) رُکْلًا و رُکْلَةً۔ لات

مارنا۔ جانور کے ایڑ مارنا۔ رُکْلَتِ

الخیل الارض۔ گھوڑے کا زمین

پر ٹاپ مارنا۔

رَاکِلٌ۔ صَاحِبَةٌ۔ ایک دوسرے کے

لات مارنا۔

تَرَاکِلٌ۔ القوم۔ ایک دوسرے کے

لات مارنا۔

تَرَکَلُ الحَافِرُ بِالْمِسْحَاةِ وَعَلَيْهَا۔

پاؤں سے زمین میں دھسنا۔

الرُکْلُ۔ گدنا۔

الرُکْلَةُ۔ سبزی کا گٹھا۔

الرُکْلُ۔ راستہ۔ جانور کو ایڑ لگانے

کی جگہ۔ جر۔ مَرَاکِلُ۔

الرُکْلُ۔ سوار کا پاؤں۔

رُکْعَدَن (رُکْعًا)۔ الشیء۔ ڈھیر لگانا۔

تہ بہ تہ کرنا۔

تَرَاکِمَ وَاَرْتَمَ۔ الشیء۔ ڈھیر

لگنا۔ "تَرَاکِمَ لَحْمٌ فَلَانٌ"

یعنی فلاں فرہ ہو گیا۔

الرُکْعُ۔ تہ بہ تہ بادل۔

الرُکْمَةُ۔ کیچڑ کا ڈھیر۔

الرُکَامُ۔ تہ بہ تہ بادل یا ریت وغیرہ۔

قَطِيعٌ سُرٌّ کَا مٌ۔ بڑا ریوڑ۔

مَرْتَمٌ۔ الطریق۔ شاہراہ۔

الرُکُومُ۔ مفع۔ سحاب مَرُکُومٌ۔

تہ بہ تہ بادل۔ مَرَاكِبُ مَرُکُومَةٌ مَرُکُومَةٌ

رُکْنٌ (ن) و رُکْنٌ (س) رُکُونًا۔

الرُکْنُ۔ کسی کی طرف مائل ہونا جھکانا۔

کسی پر بھروسہ کرنا۔ آرام لینا۔

رُکْنٌ (ن) رُکْنًا و رُکُونًا۔ باوقار

ہونا۔ سنجیدہ ہونا۔

رُکْنٌ۔ باوقار و سنجیدہ بنانا۔

اَرْکَنٌ۔ الرُکْنُ۔ کسی پر بھروسہ و

اعتماد کرنا۔

تَرَکَنٌ۔ مضبوط ہونا۔ باوقار ہونا۔

الرُکْنُ۔ جس سے قوت حاصل کی جائے۔

عزت، قوت، وغیرہ، بڑا معاملہ۔

مِنَ الشیءِ۔ جُزْءٌ شَیْءٍ۔ مضبوط

پہلو۔ کہتے ہیں "فَلَانٌ رُکْنٌ مِّنْ

اَرْکَانِ قَوْمٍ"۔ یعنی وہ اپنی قوم

کے شرفاء میں سے ہے۔ رُکْنُ الرَّجُلِ

آدمی کی قوم ج۔ اَرْکَانٌ وَاَرْکَنٌ۔

الرُّکَّانُ۔ اربعہ عناصر، یعنی آگ،

ہوا اور پانی و مٹی۔

الرُّکْنُ۔ چوڑا۔ جھکی چوڑا۔

الرُّکْنُ۔ ثابت قدم، سنجیدہ۔ باوقار۔

الرُّکْنُ مِّنَ الْجِبَالِ۔ اونچے اطراف

و پہلوؤں والا پہاڑ۔

الرُّکُونُ۔ رئیس سردار۔ بڑا کسان۔

مَنْزِلٌ رُّکُونٌ۔ دیوانی کلمہ ج۔ اَرَاکِنَةٌ

الرُّکُونُ۔ ط، لکن۔ جر۔ مَرَاکِنُ۔

رُکَانٌ (ن) رُکُوعًا۔ الارض۔ زمین کھودنا۔

۱۔ الخوض۔ حوض کو مرت کر کے

تیار کرنا۔ الامر۔ کام کو درست

کرنا، اس کی اصلاح کرنا۔ الشیء

چیز کو باندھنا۔ الامر۔ پیچھے

ڈالنا۔ مؤخر کرنا۔ الحبل علی

البعیر۔ بوجھ کو دو چند لا دانا۔

بالمکان۔ اقامت کرنا۔ رہنا۔

علی فلان۔ کسی کی بدگواہی کرنا۔

اَرْکَى۔ اَرْکَاءً۔ الارض۔ زمین کھودنا۔



اقامت کرنا۔ الخَبَرُ۔ گمان کرنا۔
اندازہ کرنا (وَأَرْمَاءَ)، عَلٰی
الْمِائَةِ۔ زیادہ ہونا۔

اَرْمَاءَ الْيَدِ - قریب ہونا۔
مُرَمَّاتُ الْاَنْخَبَاسِ - جھوٹی بے بنیاد
خبریں۔

رَمَثَلُ دَن رَمَثًا - اصلاح کرنا۔ درستی
کرنا۔ ہاتھ سے پونچھنا۔ چُرانا —
الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ - ایک شے کو دوسری
شے سے ملانا۔ مخلوط کرنا۔

رَمِثَ (س) رَمَثًا - البعير - رمث
درخت کے پتے کھانے سے بیمار ہونا

— الْأُمَرَاءُ مَخْلُوطٌ وَبِجِهٍ تَرْتِيبٌ هُنَا.
رَمَتْ عَلَى الْبَائِثَةِ سَوْطَ زَائِدٍ هُنَا.

الحَالِبِ فِي الضَّرْعِ - تَهْنُونَ مِیں

کچھ دودھ بانی چھوڑنا۔ ارمت
الشیء چیز کو نرم کرنا۔

المرث۔ ایہ اسم فی رح و سورہا جس
جس کو حَمْضٌ بھی کہتے ہیں۔ بھٹے
ان کے کلمے: زنا، آدمی، سیحہ کا

پزلے پلڑے پہنا ہوا دی۔ پیچھ ہ
کمزور۔
الکاشہ۔ جس میں بکا ہوا دودھ۔ درما کے

عجوبہ کے لیے لکڑیوں کا تختہ - زیادتی
فضیلت - بوسیدہ رسی - ج۔

الرُّمَّةُ دونه کے بعد تھنوں میں بقا

دودھ۔
الرَّمْثَاءُ - وَالرَّمْثَةُ - رَمَثَ گھاس

اگانے والی زمین۔
رَمَجَ - دَمَجًا الطَّائِرُ - پرندہ کا

بیٹ کرنا۔
رَمَجَ - الکاتب - لکھنے کے بعد خراج

الرامیج - فا - زندہ پرندہ جو بازو وغیرہ -

1

شکار کے لیے جال سے باندھ کر اس کو بطور طعمہ استعمال کیا جاتا ہے۔

الرَّمَاحُ - نیزے کی گریں اور پوریاں۔

رَمَحَ (رَف) رَمَحًا - نیزہ مارنا۔ رَمَحَتُهُ

الدَّابَّةُ جانور کالات مارنا۔

رَمَحَ السَّبْقُ بجلی کا بجے سے

چمکنا۔

تَرَامَحَ - القَوْمُ لوگوں کا ایک دوسرے

کو نیزہ سے مارنا۔

الرَّمَحُ - نیزہ۔ رَمَاحٌ وَارْمَاحٌ۔

کہتے ہیں: "كَسَرُوا بَيْنَهُمُ الرَّمَحَ"

ان کے درمیان شر و فساد بھڑک پڑا۔

"رَمِينَا بِيَوْمٍ كَفَلْنَا السُّمُوحَ"

لبے اور مصیبت کے دن سے ہمارا

پالا پڑا۔ "وَهُمْ عَلَى بَنِي فُلَانٍ

كُومُوحٍ وَاحِدٌ۔ وہ لوگ بنی فلان کے

غلاف ایک جی اور متحد ہیں۔" وَ

أَخَذَتِ الْإِيلُ رِمَاحَهَا یعنی

اوشنیاں دودھ دینے لگیں، اور

انھوں نے خود کو زخ ہونے کے خطرہ

سے بچالیا۔ السُّمُوحُ فقر و فاقہ۔

الرَّمِاحُ - فَا - نیزہ والا۔ ثَوْرٌ رَامِحٌ

دوسینگ والا بیل۔ السَّمَائُ

الرَامِحُ ایک ستارہ کا نام ہے۔

الرَّمَّاحُ - نیزہ بنانے والا۔ نیزہ لینے

والا۔ ج۔ رَمَاحَةٌ - الرَّمَّاحَةُ

مِنَ الْقَيْسِي - زور سے نیزہ پھینکنے

والی کمان۔

الرَّمَّاحَةُ - نیزہ سازی کا پیشہ۔ دَابَّةٌ

رَمَّاحَةٌ وَرَمُوحٌ - بہت کاٹنے والا

جانور۔

أَرَمَحَ - الرَّجُلُ - نرم و ذلیل ہونا۔

الرَّمَحُ - گنجان درخت۔

رَمَدَ (دَف) رَمَدًا وَرَمَادَةً - ٹھنڈ

سے ہلاک ہونا (نَض) رَمَدًا

— الْقَوْمُ قوم کو تہس نہس کر دینا

رَمَدَتِ (س) رَمَدًا - الْعَيْنُ آنکھ کا

آشوب کرنا۔ الرَّجُلُ کسی کی

آنکھ کا دکھنا، آشوب کرنا۔ رَمَدَ

عَيْشُ الْقَوْمِ قوم کا ہلاک ہونا۔

رَمَدَ - الشَّيْءُ کسی چیز کو ہلاکت میں

ڈالنا۔ رَمَدَتِ الثَّاقَةُ اوستنی

کا تھن والی ہونا۔

أَرَمَدَ - فَقِيرٌ وَمُتَحَاجٌّ ہونا۔ الْقَوْمُ -

قوم کا قحط زدہ ہونا۔ قوم کے مریشیوں

کا تباہ و برباد ہونا۔ الْعَيْنُ

آنکھ کا دکھنا۔ أَرَمَدَ کسی کو

راکھ کر ڈالنا۔ تباہ و برباد کر دینا۔

أَرَمَدَ - الشَّيْءُ - راکھ جیسا رنگ والا

ہونا۔ الْعَيْنُ آنکھ کا آشوب

کر آنا۔ فُلَانٌ - شتر مرغ کی

طرح دوڑنا۔

الرَّمَدُ - آشوب چشم۔ آنکھ کی دکھن۔

الرَّمَدُ - آشوب چشم والا۔ مِنَ الْمِيَاہِ

متغیر پانی۔ مِنَ الْبُيُوتِ - مِیلا

کچلا کپڑا۔ مَوْنَتٌ - رَمَدَةٌ -

الْأَرَمَدُ - آشوب چشم والا۔ خاکسری

رنگ والا۔ ثَوْبٌ أَرَمَدٌ - مِیلا

کپڑا۔ مَوْنَتٌ رَمَدَاءُ - الرَّمَدَاءُ

شتر مرغ۔ ج۔ رَمَدٌ -

الرَّمَادُ - راکھ۔ ج۔ أَرَمَدَةٌ -

"هُوَ يَنْفَعُ فِي الرَّمَادِ" وہ

راکھ میں پھونکتا ہے، یعنی بے فائدہ و

بے نتیجہ کام کرتا ہے۔

الرَّمَادَةُ - ہلاکت۔

الرَّمَادِي خاکسری رنگ کا۔

الرَّمَدَاءُ وَالْأَرَمَدَاءُ - راکھ۔

الرَّمَدُ - الرَّجُلُ - آشوب چشم

والا۔ الرَّمَدُ - بھول میں بھنا ہوا

رَمَدَ - حالت درست کرنا۔

تَرَمَرَمَ - کلام کرنے کے لیے منہ ہلا کر

خاموش رہنا۔

رَمَزَنَ (نَض) رَمَزًا - الْبَيْتُ - اشارہ

کرنا۔ هُ بَكَدًا - اُکسانا، بھڑکانا۔

— الْقَوْبَةُ - مشک بھرنے۔

رَمَزَنَ (نَض) رَمَزًا - الْقَبْجُ - ہرن چھلانگ

مارنا۔ ذوق بھرنے۔

رَمَزَدَ (نَض) رَمَزًا - بہت حرکت کرنا۔

عقل مند ہونا۔ شریف ہونا۔

تَرَمَسَ وَارْتَمَسَ - تیار ہونا۔ مِنَ

الصَّكْبَةِ - پوٹ سے بلبلا جانا۔

الْقَوْمُ - اٹھنے کے لیے یا خصوصیت

کے لیے اپنی جگہ کسمانا۔

أَرَمَزَ - اِرْمَزًا - الرَّجُلُ - اپنی

جگہ سے ہٹ جانا۔ اپنی جگہ جے رہنا

دُفد، منقبض ہونا۔ متحرک ہونا۔

تَرَامَسَ - الْقَوْمُ - ایک کا دوسرے کی

طرف اشارہ کرنا۔

الرَّمَسُ وَالرَّمَسُ وَالرَّمَسُ - اشارہ۔

ج۔ رَمُوسٌ -

الرَّمِيزُ - کرم، معظّم، اصیل، عقل مند۔

بہت حرکت کرنے والا۔ "رَجُلٌ

رَمِيزٌ الْفَوَادِ - تنگ دل آدمی۔

الرَّمَاةُ - دُبر زانیہ۔ زَنَدَى - بڑا شکر۔

الرَّمَامُ - مِنَ الْإِيلِ - مضبوط پھدی

قوت والا اونٹ۔

رَمَسَ (نَض) رَمَسًا - ڈھانپنا۔ دفن کرنا

— الْخَبَرُ - خبر کو چھپانا۔ الْقَبْرُ

قبر پر مٹی برابر کرنا۔ هُ بِالْحَجَبِ

کسی پر پتھر پھینکنا۔ صفت مفعول۔

(رَمِيسٌ وَهَرْمُوسٌ)

أَرَمَسَ - الْمَيْتَ - میت کو دفنانا۔

أَرَمَسَ - فِي الْمَاءِ - پانی میں ڈوبنا۔

الرَّمَسُ - مٹی۔ قبر جو زمین کے برابر ہو۔

قبر کی خاک، آہستہ و دھیمی آواز۔ ج

رَمُوسٌ دَاوَمَاسٌ۔

الرَّوَامِسُ۔ رات کو اڑنے والے پرندے

رات کو نکلنے والا جانور صفت (رَامِس)

(وَالرَّامِسَاتُ) نشانات کو مٹا

دینے والی ہوائیں۔

الرَّامُوسُ۔ قبر۔ ج۔ رَفَامِيسُ۔

الرَّمُوسُ۔ قبر کی جگہ۔

رَمَشَ (ن ض) رَمَشًا۔ الشیء کسی شے

کو انگلیوں کے سروں سے پکڑنا۔

رَمَشَتِ الْعُتْمَةُ بکریوں کا تھوڑا سا

چرنا۔ بِالْحَجْوِ کسی کو پتھر مارنا۔

بِیْدَةٍ بِلَاحَةٍ سے چھونا۔

أَرَمَشَ۔ الشَّجَرُ۔ درخت کا پتے لانا۔

پھل دار ہونا۔ الرَّجُلُ ضَعْفٌ کی

وجہ سے کسی کی طرف بہت دیکھنا۔

فِي الدَّمْعِ بَقُوطٌ آنسو بہانا۔

الرَّمَشُ۔ پلکوں کی سرخی اور ساختہ ساختہ

پانی کا رُسنا۔ پلکوں کے بالوں کا آپس

میں چٹنا۔

الرَّمَشُ۔ مَص۔ پھولوں کا دستہ۔ رَمَشَ

الْعَيْنُ آنکھ کی پلک۔

الرَّمَشُ۔ سفیدی جو جوانوں کے ناخنوں پر

ظاہر ہوتی ہے۔

الرَّمَشُ۔ خوب صورت ساخت والا۔

مَوْنٌ۔ رَمَشًا۔ ج۔ رَمَشٌ۔ ر۔

وَالرَّمَشُ۔ چندھی آنکھوں والا۔

الرَّمَشُ۔ مختلف رنگ والا۔

أَرَمَشَ رَمَشًا۔ بہت گھاس والی

زمین۔

الْمِرْمَاشُ۔ دیکھتے وقت آنکھوں کو بہت

مڑکانے والا۔ ج۔ مَرَامِيشُ۔

رَمَعَ (ن) رَمْعًا۔ اللَّهُ مُصِيبَتُهُ۔

مصیبت کو ٹالنا۔ بَلَيْتُهُمْ صَلَاحٌ

کرنا۔ الشیء ڈھونڈنا۔ طُولًا۔

إِلَیْهِ۔ کسی کی طرف پست نگاہ

سے دیکھنا۔ الدَّجَاجَةُ مرغی کا

بیٹ کرنا۔ صفت (رَمُوسٌ)۔

السَّبَاعُ۔ درندہ کا بچہ جننا۔

رَمِصَتْ (س) رَمَصًا۔ عَيْنُهُ۔ آنکھ

سے کچھ بہنا۔ صفت (أَرَمَعُ)۔

مَوْنٌ رَمَصًا۔ ج۔ رَمَصٌ۔

رَمِصَ الرَّجُلُ کچھ والی آنکھوں

والا ہونا۔

الرَّمَصُ۔ آنکھ کا کچھ پڑنا۔

رَمَعَ (س) رَمْعًا۔ النَّهَارُ دن کا

بہت گرم ہونا۔ الشَّمْسُ۔ ریت

وغیرہ پر تیز دھوپ کا پڑنا۔ رَجُلُهُ

گرم زمین سے کسی کا پاؤں جلنا۔

الطَّائِرُ۔ شدت پیاس سے پرندے

کے جوف کا گرم ہونا۔ عَيْنُهُ۔

گرم ہو کر جلنے کے قریب ہونا۔

لِلْأَمْرِ غَضَبٌ میں آگ بگولا ہونا۔

رَمَعَ (ن ض) رَمْعًا۔ النَّصْلُ۔ پھل

کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کوٹنا

تاکہ وہ باریک ہو جائے۔ رَمَعَ وَ

أَرَمَعَ الْعُتْمَةُ بکریوں کو سخت

گرم زمین میں چرانا۔ وَرَمَعَ

الصَّوْمَ رَوْحَہ کی نیت کرنا۔ رَمَعَ

الرَّجُلُ کسی کا تھوڑا سا انتظار کر کے

جل پڑنا۔ وَرَمَعَ الشیء۔ جلانا۔

أَرَمَعَ الرَّجُلُ کسی کو دکھ دینا۔

أَرَمَعَ الْحَرُّ الْقَوْمَ گرمی کا

تیز ہو کر تکلیف پہنچانا۔ الْأَمْرُ

فُلَانًا کسی کو غصہ سے آگ بگولا

کر دینا۔

تَوَقَّعَ۔ الصَّيْدُ سخت گرم جگہ میں شکار

کرنا۔ تَرَمَّضْتُ نَفْسَهُ۔ جی متلانا

أَرَمَضَ۔ مِنَ الْحُزْنِ غم سے جل جانا۔

لِفُلَانٍ کسی کے لیے غمزدہ ہونا۔

کَيْدًا۔ خراب ہونا۔ الْفَرَسُ

بد۔ گھوڑے کا کودنا۔ الرَّمَضُ۔

مص۔ گرمی کی جلن۔ خریف سے پہلے

کی بارش زمین پر برے۔

الرَّمَضِيُّ۔ مِنَ السَّحَابِ وَالْمَطَرِ۔ گرمی

کے آخر اور خریف کے ابتداء کی بارش

یا بادل۔

رَمَضَانُ۔ قمری مہینوں میں نواں مہینہ۔ ج

رَمَضَانَاتُ وَرَمَاضِيْنٌ وَأَرَمَضَاءُ

وَأَرَمِضَةٌ۔

الرَّمَضَاءُ گرمی کی تیزی۔ دھوپ کی تیزی

کی وجہ سے گرم زمین۔

الرَّمِيزُ وَالرَّمِيزَةُ۔ مِنَ الْبِنَالِ۔

تیز بھالا۔

رَمَطٌ (ن ض) رَمَطًا۔ عِيبٌ لُكَانًا طَعْنٌ وَ

تَشْنِيعٌ کرنا۔

رَمَعَ (ن) رَمْعًا۔ الْفُتْلُ۔ غصہ یا

بڑھاپے کی وجہ سے ناک کا کانپنا۔

صفت (رَمِعٌ)۔ عَيْنُهُ۔ آنکھ کا

آنسو بہانا۔ رَمِيزٌ۔ غصہ سے

اشارہ کرنا۔ دَاسَةٌ۔ سر ہلانا۔

ر۔ رَمْعًا وَرَمْعَانًا الرَّجُلُ۔

تیز چلنا۔

رَمِعٌ وَأَرَمَعَ۔ السَّاقِ۔ ساق کی

پیٹھ یا پیرٹ میں درد ہونا۔ رَمِعَتِ

الْمَرْأَةُ بِالتَّضْيِیِّ عورت کا بچہ جننا۔

تَرَمَعَ۔ غصہ سے کانپنا۔ لَزْنَا۔

الْوَامِعُ۔ فَا۔ سر جھکا کر اٹھانے والا۔ سر کو

اوپر نیچے کرنے والا۔

الرَّمْعَةُ بَلَطًا۔ کہتے ہیں۔ رَمْعَةٌ مِیْنُ

نَبَاتٍ گھاس کا کچھ حصہ۔

الرَّمَاعَةُ۔ دُبر۔ بچہ کا تالو جو حرکت کرتا

رہتا ہے۔

الرَّمَاعُ۔ کمر کا درد۔ پیٹ کا درد جس سے

چہرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔

الرَّمْعُ۔ پھر کی۔ سفید چمکتی ہوئی کنکریاں۔

ج۔ بَرَامِق۔ کتے ہیں۔ تَدَكْتُتُ
لَيْفَتُ الْبَرَامِقِ۔ میں نے اس کو
اس حال میں چھوڑا کہ وہ غم اور صدمہ
سے جوڑ چڑھا۔
الْمُرْمَعَةُ۔ بیابان۔
رَمَقٌ (رَمَقًا)۔ الشَّيْءُ۔ چڑے
وغیرہ کو ہاتھ سے ملنا۔
رَمَقٌ۔ رَأْسُهُ۔ سر میں تیل لگانا۔
الکَلَامُ۔ گفتگو میں جھوٹ سچ ملا
کر اس کو جھپٹی کرنا۔ الطَّعَامُ
کھانے کو سالی سے تر کرنا۔
رَمَقُهُ (رَمَقًا)۔ نَفَرُ الْوَلَدِ۔ دیر
تک دیکھنا۔
رَمَقٌ۔ دیر تک دیکھنا۔ الْکَلَامُ۔
کلام کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔
الْعَمَلُ۔ کسی کام کو اچھی طرح نہ کرنا
۔ کُیَا الشَّيْءِ۔ کسی چیز سے کسی کے
آخری سانس کو بچا لینا۔
رَامَقٌ۔ مَرَامَقَةٌ۔ الْعَمَلُ۔ کسی کام
کو اچھی طرح نہ کرنا۔ الرَّجُلُ۔ کسی
شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کے
ساتھ خاطر مدارات سے پیش آنا۔
تَرَمَقٌ۔ الْمَاءُ أَوِ اللَّبَنُ۔ پانی یا
دودھ تھوڑا تھوڑا پینا۔
إِرْمَقٌ وَإِرْمَاقٌ۔ الشَّيْءُ۔ کمزور ہونا
پتلا ہونا۔ إِرْمَاقُ الرَّجُلِ۔ لاغوی
سے ہلاک ہونا۔ إِرْمَقُ الطَّرِيقِ۔
راستہ دراز ہونا۔ عَشِيشٌ
رَمِيقٌ وَرِمَاقٌ۔ تنگ گزران۔
الِرِمَاقُ۔ نفاق و دشمنی کی وجہ سے
ترجیحی نظر سے دیکھنا۔
الرَمَقُ۔ زندگی کے آخری سانس۔
مِنَ الْعِيشِ۔ وہ کم سے کم گزارہ
جس سے آخری سانس باقی رہ سکے۔
ج۔ أَسْمَاقٌ۔

الرَمَقُ۔ بکریوں کا گلہ دار سی رمل سے
معرّب ہے،
الرَمَقَةُ وَالرِمَاقُ وَالرِمَاقُ۔ مِنَ
الْعِيشِ۔ بہت قلیل گزارہ جس
سے انسان صرف زندہ رہ سکے۔
قوت لایوت۔
الرَامِقُ وَالرَمُوقُ۔ فقیر حاسد۔ ج
ج۔ رُمُقٌ۔ رَجُلٌ رُمُقٌ۔ کمزور
آدمی۔
الرُمُوقُ وَالرَمُوقُ۔ الْعِيشِ
تنگ گزران والا آدمی۔
الرُمَاقُ۔ بد خلق۔ بے مہر۔
الرِمُوقُ۔ کمزور نظر والا۔
رَمَلٌ۔ رَمُوكًا۔ بِالْمَكَانِ۔ اقامت
کرنا۔ رہنا۔ الْأَبِلُ عَلَى الْمَاءِ
اونٹوں کا پانی پر پڑاؤ کرنا۔
أَرْمَلَةٌ۔ بِالْمَكَانِ۔ کسی کو کسی جگہ ٹھہرانا۔
إِرْمَلٌ۔ إِرْمَكًا۔ دہلا پتلا ہونا۔
الْبَعِيرُ۔ اونٹ کا خاکستری رنگ
کا ہونا۔ صفت۔ أَرْمَلٌ۔ مَوْنٌ
رَمَكًا۔ ج۔ رُمَلٌ
اسْتَرْمَلٌ۔ الْقَوْمُ۔ حسب میں کھوٹ
رکھنا۔ عیب دار ہونا۔
الرَامِلُ وَالرَامَلُ۔ ایک قسم کی خوشبو
الرَمَلَةُ۔ گھوڑی، یا وہ گھوڑی جو نسل
چلانے کے لیے رکھی جائے۔ ج۔
رَمَلٌ وَرِمَالٌ وَرَمَكَاتٌ
وَأَرْمَالٌ۔ رَجُلٌ رَمَلَةٌ۔
کمزور آدمی۔
الرَمَلَةُ۔ اونٹوں کا خاکستری رنگ۔
رَمَلٌ (رَمَلًا)۔ رَمَلًا۔ الطَّعَامُ۔ کھانے
میں ریت ملانا۔ النَّسِيجُ۔ باریک
بننا۔ السَّرِيرُ۔ تخت کو جواہر
وغیرہ سے سجانا۔ آراستہ کرنا۔
الثَّوْبُ بِاللَّدَمِ۔ کپڑے کو خون میں

لتھپڑنا۔ رَمَلًا وَرَمَلَانًا وَ
مَرَمَلًا)۔ کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑنا
رَمَلَةٌ۔ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا۔ عورت
کا رائے دیوہ ہونا۔ النَّسِيجُ۔ باریک
بننا۔ الْکَلَامُ۔ کلام کو گھٹیا بنانا۔
الْخَطُّ۔ لکھے ہوئے پر خشک کھینچنے
کے لیے ریت ڈالنا۔ الثَّوْبُ
کپڑے کو خون میں لتھپڑنا۔
أَرْمَلٌ۔ الْقَوْمُ۔ قوم کی خوراک یا توشہ
کا ختم ہو جانا۔ فقیر ہونا۔ زَادَهُمْ
توشہ ختم ہونا۔ الْمَرْأَةُ۔ عورت
کا دیوہ ہونا۔ الْحَبْلُ۔ دسی دراز
کرنا۔ السَّهْمُ۔ تیر کا خون سے
لتھڑنا۔ النَّسِيجُ۔ باریک بننا۔
تَرَمَلَتْ۔ الْمَرْأَةُ۔ عورت کا دیوہ ہونا۔
تَرَمَلٌ وَارْتَمَلٌ۔ بِاللَّدَمِ۔ خون
سے لتھڑنا۔
الرَمَلُ۔ ریت۔ رَمَلَةٌ۔ اس سے
خاص ہے۔ ج۔ رِمَالٌ وَارْمَلٌ۔
علم رمل۔ ایک علم ہے جس میں ریت پر
لیکھیں کچھ کر آئندہ کے حالات معلوم
کرتے ہیں۔ أَمْرٌ مَالٍ۔ بچو۔
الرَمَلُ۔ تھوڑی بارش۔ زیادتی نیل گائے
کی ٹانگوں میں دھاریاں۔ علم عروض میں
ایک بحر کا نام ہے۔ فن موسیقی میں
ایک راگ۔
الرَمَلَةُ۔ زمین کا ریت کا قطعہ۔
الرَمَلَةُ۔ کالی دھاری۔ ج۔ رُمَلٌ وَ
أَرْمَالٌ۔
الرَمَلُ۔ مفلس مسکین۔ رنڈوا۔ ج۔
أَرَامِلٌ وَأَرَامِلَةٌ۔ مَوْنٌ أَرْمَلَةٌ
عَاہُ أَرْمَلٌ۔ کم بارش اور نفع
والاسال۔
الرَمَلَةُ۔ محتاج۔ کمزور لوگ۔
الرَمَالُ۔ ریت نیچنے والا۔

الْمُرْمِلُ - چھوٹی بیڑی۔ الْمُرْمِلُ وَ الْمُرْمِلُ شِير.

الرَّمَانُ - انار کا درخت۔ انار۔ واحد (رَمَانَةٌ) الرَّمَانَةُ - ناف اور اس کے آس پاس پیٹ کا حصہ۔

الرَّمْمَةُ - انار اگنے کی جگہ۔ رَمِمَهُ دس رَمَمَهَا - اليوم - دن کا سخت گرم ہونا۔

رَمَى (رَمَى) رَمِيًا وَ رَمَايَةً - الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ - پھینکنا۔ الْمَكَانَ - کسی جگہ کا قصد کرنا۔ اَللَّهُ لَكَ

مَدَدٌ كَرْنَا - رَمَاهُ يَكْذِبُ - کسی پر عیب لگانا۔ تهمت لگانا۔ کہتے ہیں

”رَمَى بِحَبْلِهِ عَلَى غَارِ يَهُدَا“ اس نے اس کی رسی اس کے کندھے پر رکھ

دی، یعنی اس کو آزاد چھوڑ دیا، کہ جو چاہے سو کرے۔ رَمَى عَلَى الْخَمْسِينَ

پچاس پر زیادہ ہو گیا۔ الْمَالَ - مال بہت ہونا۔ ”رَمَى بِهِ عَلَى

الْبَلَدِ“ کسی کو کسی شہر پر والی اور حاکم بنانا۔

رَمَى - اِرْمَاءٌ - الشَّيْءَ مِنْ يَدِهِ - پھینکنا۔ اَلثَّنَاءُ - عَنْ قَسَمِهِ

گھوڑے کی پیٹھ سے گرامینا۔ اِرْمَى عَلَى الْخَمْسِينَ - پچاس سے

بڑھنا۔ زائد ہونا۔ اِرْمَتْ يَدَهُ الْبِلَادُ - وطن سے نکال دینا۔

رَامَاهُ مَرَامًا وَ رَمَاءً وَ تَرَمَاءً - ایک دوسرے کو دفع کرنا۔ دور کرنا

ایک دوسرے پر تیر مارنا۔ تَرَاهِي تَرَاهِيًا - الْقَوْمَ - ایک کا

دوسرے پر تیر مارنا یا پتھر برسانا۔ الْأَمْرُ - تاخیر ہونا۔ السَّحَابُ

بادلوں کا ایک دوسرے سے ملنا۔ تَرَاهِي - الشَّيْءَ کسی چیز کا لگاتار

ہونا۔ کہتے ہیں۔ ”مَا زَالَ الشَّيْءُ يَتَرَاهِي بَيْنَهُمْ“ شران کے درمیان

برابر جاری رہا۔ اِرْتَمَى - اِرْتَمَاءً - پھینکنا۔ پھینکنا۔

الصَّيْدُ شُكَّارٌ بِتِرْمَانَا - اِرْمَتْ بِهِ الْبِلَادُ - جلاوطن کرنا۔ ملک

سے باہر نکال دینا۔ تَرَمَى - تیر پھینک کر شکار کرنا۔

الرَّسَاحِي - پتھر پھینکنے کی آواز۔ الرَّمَاءُ - زیادتی۔ سود۔

الرَّمِيَّةُ - زیادتی، کہا جاتا ہے: هُوَ ضَاحِبٌ رَمِيَّةٌ - یعنی وہ باتوں

میں زیادتی کرتا ہے۔ ”فِي هَذَا رَمِيَّةٌ عَمَّا قِيلَ لِي“ جو مجھ سے

کہا گیا تھا، اس میں اس سے زیادتی ہے۔ جو ہمیشہ خطا کرتا ہوا اور اتفاق

سے اس سے صحیح ٹھیک کام سرزد ہو جائے تو کہتے ہیں ”رَمِيَّةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ“

الْوَاهِي - فا۔ جہ۔ رَمَاءٌ وَ رَامُونَ - تیر مارنے والا۔ ایک ستارہ کا نام۔

الرَّحِي - بہت سخت بارش برسانے والا بادل۔ جہ۔ اِرْمَاءٌ وَ اِرْمِيَّةٌ وَ

رَمَايَا - الرَّمِيَّةُ - تیر سے شکار کیا ہوا۔ جہ۔ رَمَايَا -

الْمُرْمِي - تیر پھینکنے کا آلہ۔ جہ۔ مَرَامٍ اَلْمُرْمَاةُ - چھوٹا کمزور تیر۔ کھڑ۔

الْمُرْمِي - مصلحتی۔ تیر پھینکنے کی جگہ۔ جہ۔ مَرَامٍ - هَذَا الْكَلَامُ بَعِيدٌ

الْمَدْرِي - یہ کلام دور رس ہے۔ ”لَكَ هَمَلَةٌ قَصِيَّةٌ الْمَدْرِي“

اس کی ہمت دور تک پہنچنے والی ہے۔ دَقَّ (دَقَّ) رَمِيَّتَا - وَ اَسْرَقَ - بلند

آوازی سے رونا۔ دَقَّ وَ اَدَقَّ - اَلْبَيْتُ - کسی کی طرف کان لگانا۔

دَقَّتْ وَ اَدَقَّتْ الْقَوْسُ - کمان کا آواز کرنا۔ دَقَّ وَ اَدَقَّ وَ اسْتَوَتْ

لِكُنْزَا - کھیل کود کرنا۔ دَقَّتْ - الْقَوْسُ - کمان سے آواز

نکلوانا۔ (دَقَّتْ دَقَّتَا وَ تَرَمِيَّتَا) چھیننا۔ چلانا۔

الرَّمِيَّةُ - مطلق عام آواز، یا خاص کمان وغیرہ کی آواز۔ الرَّمِيَّةُ - مطلق

آواز یا غمگین آواز۔ الرَّمِيَّةُ - تھوڑا پانی۔ گرمی کے موسم میں پانی

میں بولنے والا ایک جانور۔ الرَّمِيَّةُ - تمام مخلوق۔

رَمَى - فا۔ آواز کرنا۔ اَلْبَيْتُ - کسی کی طرف دیکھنا۔ فِي مَشْيِهِ - سست چلنا۔

الرَّمِيَّةُ - خرگوش۔ مَرْمُوتٌ وَ مَرْمُوتُونَ کے لیے۔ یہ جانور بڑی میں ضرب المثل ہے

ایک قسم کا زیور۔ جہ۔ اَرَامِيَّةُ - (والدین کے) چھوٹی دم کا ایک

جنگلی چوہا۔ اَلدَّرْبَةُ - اَرْدَبٌ کا واحد۔ ناک کا سر۔

کہتے ہیں ”جَدَّ عَ فُلَانٍ اَرْدَبَةً فُلَانٌ“ فلاں نے فلاں کی ناک کاٹ

ڈال، یعنی بہت ذلیل و رسوا کیا۔ جہ۔ اَرَامِيَّةُ - ”لَيْسَ بِمَرْمُوتٍ وَ

مَرْمُوتِي“ وہ کپڑا جس کی بناوٹ میں خرگوش کی اون مٹی ہوئی ہو۔

اَرَضْنِي مَرْمُوتَةً وَ مَرْمُوتَةً وَ مَرْمُوتَةً - وہ زمین جس میں خرگوش

بہت ملیں۔ دَرَجَلَةُ - تَرَمِيَّتَا - کمزور ہونا۔

الرَّيْحُ الْغَضَبُ - ہوا کا ٹپنی کو جھکانا۔ کہتے ہیں ”حَرَمْتُكَ حَتَّى رَمَحْتُكَ“

میں نے اس کو اس قدر مارا، کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔

رُفِیحٌ - عَلَیْہِ غُشِی طاری ہونا۔
 بھاگنے یا خوف یا غم کی وجہ سے
 سست و کمزور ہو کر خمیدہ ہو جانا۔
 صفت (مُرْتَفِعٌ)
 تَرْتَفِعُ وَاِسْرُتَتْ - نشہ وغیرہ کی وجہ
 سے جھک جانا۔ عَلَیْہِ کسی پر
 فخر کرنا۔
 السَّرْتَعُ - دوران سر۔ چکر۔
 المُرْتَحَتُ - جہاز کا اگلا حصہ۔
 دَنَعٌ (دَن) رُنْحًا - سُست ہونا۔
 دَنَحْلُ - خوار و ذلیل کرنا۔
 تَرْتَفِعُ - بدلہ۔ کسی چیز سے چمٹنا، لٹکنا۔
 السَّرْنَدُ - ایک قسم کا خوشبودار پودا جو
 آس کے مشابہ ہوتا ہے۔ کھجور کی
 پتیوں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی گون۔
 رَنَحٌ (دَف) رُنُوعًا - لاغر و دہلا ہونا۔
 - کُوْنُکُ - رنگ کا متغیر ہونا۔
 - الدَّابَّةُ جانور کا سر سے
 مکھیاں اڑانا۔ الرَّجُلُ - گھیلنا۔
 رَنَعٌ - رَاسَتٌ - اپنے سر کو ملانا۔
 المَرْتَعَةُ - کھیل میں آوازیں۔ کشادگی۔
 باغ، ارزانی و فراخی۔
 اَرْتَفٌ - الرَّجُلُ - تیز چلنا۔
 البَعِیْرُ - اونٹ کا چلتے ہوئے
 سر بلانا۔ النَّاظَةُ ہاتھ نیچھا۔
 اونٹنی کا تھکن کی وجہ سے کان ڈھیلے
 کرنا۔
 الوَائِفُ - مِنْ کُلِّ شَیْءٍ - ہر چیز کا
 کنارہ۔ سرا۔
 المَرَائِفَةُ ناک کا کنارہ۔ کان کی نرم
 ہڈی کا کنارہ۔ سرین کا وہ حصہ جو
 بیٹھے وقت زمین پر لگتا ہے۔
 مِنَ النُّجْمِ - آستین کا سرا۔ جہ
 رَوَائِفُ - "عَلَوُ رَوَائِفِ الْاَکَامِ"
 وہ ٹیلوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔

رَنَقٌ (دَن) رُنْقًا وُرُنُوقًا - وَرِنَقٌ
 (دَس) رَنَقًا - المَاءُ - پانی کا
 گدلا ہونا۔ صفت (دَرِنَقٌ وَرِنَقٌ)
 رَنَقٌ - المَاءُ - پانی کو مکر کرنا۔ گدلا
 کرنا۔ پانی کو صاف کرنا۔ القوم
 بالمکان - کسی جگہ اقامت کرنا۔
 کھڑنا۔ الطَّائِرُ - پرندے کا
 بغیر اڑنے کے بازوؤں کو پھٹھانا۔
 النومُ فی عَیْنِہِ - نیند کا آنکھوں
 میں بھڑنا۔ جَنَاحُ الطَّائِرِ -
 بازو لٹٹنے سے پرندے کا کرنا۔
 عَیْنَاہُ - بھوک وغیرہ سے نگاہ
 کا پست ہونا۔ جِسْمُہُ اَوْ
 رَایُہُ - کمزور جسم یا رائے ہونا۔
 السَّیْفِیْنَةُ - کشتی کا اپنی جگہ گھومنا
 اور نہ چلنا۔ الرَّجُلُ - حیران
 ہونا۔ المَیْنِیَّةُ مَیْنٌ - موت کا
 قریب ہونا۔ کہتے ہیں "رَنَقٌ وَلَا
 تَعِیْلٌ" - ٹھہرو، انتظار کرو۔ جلدی
 نہ کرو۔ النَّظَرُ اِلَیْہِ کسی کو دیر
 تک دیکھنا۔
 اَرَنَقٌ - المَاءُ - پانی کو مکر کرنا۔
 اللِّوَاءُ حملے کے لیے جھنڈے کو
 جنبش دینا۔ اللِّوَاءُ - جھنڈے
 کا ہلنا۔
 تَرَنَقٌ - المَاءُ - پانی کا گدلا ہونا۔
 السَّرَنَقُ - جھوٹ۔ گدلا پانی۔
 المَرْنَقَاءُ - مِنَ الطَّیْرِ - انڈے سینے
 والا پرندہ۔ عام لوگ اس کو قَرَقَتُہ
 کہتے ہیں۔ "اَرْضُ رُنْقَاءُ" - بخر
 زمین۔ جہ۔ رَنَقَاوَاتٌ۔
 الرُّنْقَةُ مٹی ملا ہوا پانی، یا حوض میں تھوڑا
 سا بچا ہوا گدلا پانی۔ جہ۔ دَیَا نَقٌ۔
 الرُّوْنَقُ جھک دمک، حسن و زیبائش۔

التَّرُنُوقُ والتَّرُنُوقُ والتَّرُنُوقَاءُ۔
 نہروں کا کپڑا پانی کے بہاؤ میں خشک
 شدہ مٹی۔
 رَنَحٌ (دَس) رَنِیْمًا وَرَنَحًا وَرَنَحًا۔
 خوش آوازی سے گانا۔ الرَنَحُ و
 الرَنَحَةُ - گیت، راگ، آواز۔
 الرُّنْحُ - خوش آوازی سے گانے والیاں۔
 ہوشیار چھوکریاں۔
 رَنَانٌ (رُنُؤًا) - وَرَنًا - اِلَیْہِ۔
 کسی کی طرف ٹٹکل لگا کر دیکھنا۔
 الرَّجُلُ - دل کی مشغولی اور خواہش
 کے غلبہ کے ساتھ کھیل کود میں لگنا۔
 (وَدَرَانِی عَنَہُ) کسی سے غافل ہونا۔
 رَنَیْ - تَرَنِیْعٌ - گانا۔ اِلَیْہِ۔
 مشتاق ہونا۔ (وَأَرَنَی) الحَسَنُ
 فَلَانًا - حَسَن کا کسی کو تعجب میں ڈال
 کر دیکھنے پر اکسانا۔ اَسْرَنَاہُ اِلَی
 الطَّاعَةِ - کسی کو طاعت پر لگانا۔
 اور پھر اس کا طاعت پر ہمیشگی اختیار
 کرنا۔
 رَنَانَاہُ - سلوک کرنا۔ ملاقات کرنا۔
 مقابلہ کرنا۔ لَدَا شَرَفٌ یُدْرَانِی
 الکو اکب۔ وہ شرف میں ستاروں
 سے مقابلہ کرتا ہے۔ یعنی ستاروں سے
 زیادہ لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف
 کھینچتا ہے۔
 تَرَنَیْ - محبوب کی طرف مسلسل دیکھنا۔
 الرَّنَا - مص۔ وہ خوبصورت چیز جس کو دُور
 تک دیکھا جائے۔
 المَرْنَاءُ - خوبصورتی۔
 الرُّنَاءُ - اچھی آواز۔ طرب۔
 الرُّنَاءُ وَاَلرُّنُوءُ - خوبصورت چیز کی
 طرف بہت خوشی سے دیکھنے والا۔
 دَہَبٌ (دَس) دَہْبَةٌ وِدُہْبًا وِدُہْبًا
 وِدُہْبًا وِدُہْبًا وِدُہْبًا نا۔



<p>رَہَس (ف) رَہَسَا۔ الشیء۔ سخت روندنا۔ تَرہَس۔ الشیء۔ چیز کا ہلنا۔ مضطرب ہونا۔ اِرَہَس۔ القوم۔ لوگوں کا بھیڑ کرنا۔ اِرَہَسْتُ رَجُلًا الدَّابَّة۔ جانور کی ٹانگوں کا آپس میں رگڑ کھانا۔ المَوَادِی۔ وادی کا بھڑنا۔ الجَوَادُ ٹڈیوں کا دل بادل ہونا۔ اِرَہَس۔ الرجل۔ لڑنا۔ کانپنا۔ القوم۔ قوم میں جنگ چھڑنا۔ القوس کمان کا نرم اور ڈھیلی ہونا۔ الفرس گھوڑے کے کھروں کا آپس میں ٹکرانا۔ تَرہَس۔ کرم و سخاوت سے کام لینا۔ الناقۃ اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔ الرہس۔ جانور کی اگلی ٹانگوں کا آپس میں رگڑ کھانا۔ الرہیش۔ من التراب۔ باریک کرنے والی مٹی۔ کمزور۔ پتلا۔ کم گوشت، باریک پھل۔ پتلا۔ ہلکا تیر۔ ناقۃ رَہِشۃ زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی۔ الرہشان۔ جانور کے بازوؤں کے اندر کی دو رگیں۔ الرہشۃ۔ کرم و سخاوت۔ جیا۔ المَوَاحِش۔ جانور کے بازوؤں کے اندر کی رگیں۔ ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہر کی رگیں واحد (رَہِش و رَہِشۃ) رَہَص (ف) رَہَصَا۔ الشیء۔ زور سے پنچڑنا۔ الصید۔ شکار کو کمزور و سست کرنا۔ ہ۔ ملامت کرنا۔ جلدی کرنا۔ الحایط۔ دیوار پر پھلاڑہ رکھنا۔ الفرس۔ گھوڑے کے کھروں کو زخمی کرنا۔ اِرَہَص۔ الحایط۔ دیوار پر پھلاڑہ رکھنا۔ الشیء۔ بنیاد ڈالنا ثابت</p>	<p>اِرَہَج۔ غبار اڑانا۔ بَیِّن القوم بعض کو بعض پر بھڑکانا۔ السَّعَا آسمان کا برس پڑنا۔ الرہج و اِرَہَج۔ اڑایا ہوا غبار۔ والرہج۔ فتنہ و فساد۔ شور و شغب۔ پانی سے خالی بادل۔ واحد (رَہَجۃ) الرہوجۃ۔ ایک قسم کی چال۔ رَہَدَ (ف) رَہَدَا۔ بہت باریک پسینا۔ رَہَد۔ بڑی حاکت و بے وقوفی کرنا۔ رَہَادۃ۔ العیش۔ زندگی کی خوشحالی۔ الرہودۃ۔ مہربانی۔ نرمی۔ الرہیل۔ نرم و نازک۔ ازاں۔ اَمْر مَہُود۔ غیر حکم کام۔ رَہَدَن۔ دیر لگانا۔ فی مَشیۃ۔ چلنے میں گھومنا۔ الرہَدَن والرہَدَن والرہَدَن بزدل۔ احمق۔ چڑیا کی طرح ایک پرندہ ج۔ رَہَادَن و رَہَادَنۃ۔ الرہَدَوَن۔ بہت چھوٹا۔ رَہَدۃ۔ رَہَدۃ۔ مَا بَدَلۃ۔ فیاضی و سخاوت سے دسترخوان کو پھیلانا، فراخ کرنا۔ تَرہَدۃ۔ السَّراب۔ سراب کا برابر چکنا۔ جَسْم۔ آسودہ عالی کی وجہ سے جسم کا سفید و نرم و نازک ہونا۔ الرہرۃ۔ مص۔ چہرہ کی چمک دمک خوشروئی۔ جَسْم رَہَوۃ و رَہَوۃ و رَہَوۃ۔ نرم و نازک اور سفید جسم۔ طَسْتُ رَہَدۃ و رَہَوۃ۔ چوڑا اٹھلا طست۔ رَہَد (ف) رَہَدَا و رَہَدَا۔ تردد کی حالت میں حرکت کرنا۔ اِرَہَص۔ اِلَامِر۔ خوشی سے جھومنا۔</p>	<p>ڈرنا۔ خوف کھانا۔ رَہَب۔ الجَمَل۔ اونٹ کی پیٹھ کا کمزور ہونے کی وجہ سے اٹھنے کی کوشش کر کے پھر بیٹھ جانا۔ رَہَبَتِ الناقۃ سفر کا اونٹنی کو تھکا دینا۔ صفت مذکر و مؤنث (رَہَب) ج۔ رَہَاب۔ اِرَہَب۔ تھکے ماندے اونٹ پر سوار ہونا۔ آستین لمبی کرنا۔ اَسْرَہَبۃ۔ خوفزدہ کرنا۔ تَرہَب۔ رَہَب ہونا۔ عبادت کرنا۔ ہ۔ دھکی دینا۔ اِسْتَرَہَبۃ۔ خوف دلانا۔ الرہب۔ باریک پتلا پھل۔ من الایبل۔ سفر سے تھکا ماندہ اونٹ ج۔ رَہَاب۔ الرہب۔ آستین۔ الرہبۃ والرہبی والرہبۃ والرہبۃ۔ ڈر۔ خوف۔ الرہبۃ والرہبۃ والرہبۃ۔ راہبوں کا طریقہ۔ الرہب۔ فا۔ شیر، لوگوں سے کنارہ کش ہو کر گرجا میں عزت نشین ج۔ رُہَبَان۔ مؤنث رَہِبۃ۔ ج۔ رَہِبَات و رَہَاب۔ الرہَبَان۔ بہت خوف کرنے والا۔ ج۔ رَہَابِیْن و رَہَابِیْنۃ و رَہَابِیْنۃ۔ مؤنث۔ رَہَبَانۃ۔ ج۔ رَہَبَانَات۔ الرہَبَان۔ رَہَب۔ ج۔ رَہَابِیْن۔ مؤنث رُہَبَانۃ۔ ج۔ رَہَبَانَات۔ الرہبوت و الرہبوتی۔ سخت خوف۔ المَرَاہِب۔ ہولناکیاں، خوفناکیاں۔ الرہیب۔ خوفناک شیر۔ رَہَب۔ غیر مفہوم کلام کہنا۔ تَدَہَب۔ تیز چال چلنا۔ الرہب۔ غیر مفہوم کلام۔</p>
---	--	--



کرنا۔ ۱ اللہ کسی کو بھلائی کی
کان بنانا۔ الفرس۔ گھوڑے
کے گھروں کی گھری۔
داهص۔ غریب۔ قرضدار کے گھر کی
نگرانی کرنا۔
تراہصت۔ الصخور۔ چٹانوں کا آپس
میں پیوستہ ہونا۔
الرهص۔ من الحائط۔ دیوار کا پہلا
ردہ پہنے کی مٹی۔ الرهاص۔
مٹی کا رابنا۔ والا۔
الرهصة۔ گھوڑے کے سُم کا زخم۔
الرهيص۔ من الخيل۔ زخمی گھوڑا۔
حفّ رھيص۔ اونٹ کا پتھر سے
زخمی گھر۔ اسد رھيص۔ اپنی
جگہ سے نہ ٹپنے والا شیر۔
الرواهيص۔ من الجحار۔ گھروں کی
کرنے والے پتھر مضبوط جی ہوئی
چٹانیں۔ واحد (داهصة)
المرهصة۔ درجہ۔ رتبہ۔ پائیگاہ۔ ج
مراھيص۔
رھط (د) رھط۔ اللقمة۔ بڑا
لقمہ لینا۔ بہت کھانا۔
رھط۔ بہت کھانا۔ بڑا لقمہ لینا۔ گھوڑے
کی پیٹھ پر سوار ہونا۔ گھر سے باہر نہ
نکلنا۔
ارتھط۔ القوم۔ قوم کا جمع ہونا۔
اکٹھا ہونا۔
الرھط و الرھط۔ آدمی کی قوم قبیلہ
تین سے دس تک کا گروہ جس میں
عورت نہ ہو۔ اس کا واحد نہیں۔ ج
ارھط و ارھاط۔ جج۔
اراهط و اراھیط۔ رھط کی
طرف اگر عدد کی اضافت کریں تو اس
سے اشخاص و افراد مراد ہوتے ہیں۔
جیسے کہتے ہیں "عشرون رھطاً"

یعنی بیس اشخاص "نحیٰ ذورھطاً"
یعنی ہم اکٹھے ہیں۔ الرھط۔ دشمن
الرھاط۔ گھر کا سامان۔
الرھط و الرھط و الرھط۔
من حجرة اليربوع۔ جنگلی
پوہے کا وہ سوراخ جس سے وہ مٹی
نکالتا ہے۔ ج۔ رھاطی۔
رھف (د) السیف۔ تلوار کو باریک
کرنا۔ پتلی کرنا۔
رھف (د) رھاف و رھفا۔
باریک و پتلا ہونا۔ صفت (رھیف)
ارھف۔ السیف۔ تلوار کی دھار کو
پتلی اور تیز کرنا۔ ارھف بالکلام
فی البدیہہ کہنا۔
الرھیف۔ پتلا۔ پتلی کی ہوئی دھار۔ دھار
وال تلوار۔
الرھف۔ مفع۔ سیف مرھف
تیز باریک دھار کی تلوار۔ فرس
مرھف چپکے ہوئے پیٹ اور
قریب قریب پسلیوں والا گھوڑا۔
اور یہ عجیب ہے۔ مرھف
الجسم۔ دبلے پتلے بدن والا۔
رھق (د) رھقا۔ بے وقوف ہونا۔
صفت (رھق) ہلکا ہونا۔ ظلم کرنا
بدا عمل ہونا۔ جھوٹ بولنا۔ جلدی
کرنا۔ السقر۔ سفر کا قریب و
نزدیک ہونا۔ کہتے ہیں "رھقت
الکلاب الصید"۔ کتوں نے شکار
کو جا لیا۔
رھق۔ کسی کو برائی سے متہم کرنا۔
رھق۔ الغلام۔ لڑکے کا بلوغ
کے قریب پہنچنا۔ صفت (مراھق)
کہتے ہیں "مکی الصلاة مراھقاً"
وقت کے ختم کے قریب نماز پڑھی۔
ارھق۔ ظلماً۔ ظلم میں مبتلا کرنا۔

۱ اثماً کسی کو گناہ پر اکسانا۔
۱ عسراً کسی کو تکلیف دینا۔
تکلیف دہ کام لینا۔ ۱۔ پالینا۔
طاقت سے اونچے کام پر اکسانا۔
الصلاة۔ نماز کو آخر وقت تک
مؤخر کرنا۔ زیداً ان یصلیٰ
نماز پڑھنے میں جلدی کرنا۔ کہتے ہیں۔
"لا ترھقنی لا اذھقک اللہ"
تم مجھ پر سختی نہ کرو، تم پر اللہ سختی نہ
کرے گا۔
الرھق۔ مص۔ گناہ۔ تمہمت، کم عقلی۔
جہالت۔ آدمی کو ایسے کام پر لگانا جو
اس کی طاقت سے اونچا ہو۔
الرھقی۔ ایک قسم کی دوڑ۔
الیرھاق و الرھاق۔ قریب۔ تقریباً
"کانوا یرھاقوا مائة"۔ وہ سو کے
قریب تھے۔
الرھیق۔ شراب۔
الرھیقان۔ زعفران۔
الرھق۔ قتل کے لیے گرفتار۔ سخت
تکلیف میں پھنسا ہوا۔
الرھق۔ مفع۔ کم عقل۔ جاہل۔ خراب
شرارت سے متہم، سخی، فیاض۔
رھک (د) رھکا۔ الشیء۔ چیز کو
باریک پسینا۔ صفت مفعولی رھیک
ومرھوک۔ بالمکان۔ اقامت
کرنا۔ رہنا۔
ارھک۔ چلنے میں سست اور ڈھیلا ہونا۔
الرھک۔ مص۔ ٹیک عمل۔
الرھکۃ۔ کمزوری۔
رھل (د) رھلا۔ ڈھیلا اور پھولے
ہوئے گوشت والا ہونا۔ صفت۔
رھل۔
آھل و آرھل۔ السوم۔ نیند کا
سست و ڈھیلا کرنا۔

تَرْهَلَّ - ڈھیلنا ہونا۔

الرَّهْلُ - پتلا پتلا بادل۔

الْمُتَرْهَلُّ - ڈھیلے بدن والا۔ اَرَهَمْتُ

السَّمَاءَ - آسمان کا نرم ہلکی بارش

برساتا۔

الرَّهْمَةُ - ہلکی پیہم بارش۔ ج۔ رَهْمٌ

وَرَهَامٌ -

الرَّهَامُ وَالرَّهْمُ - دہلی بکری۔

الرَّهَامُ - غیر شکاری پرندہ۔ بڑی تعداد۔

الرَّهْمُ - زیادہ زرخیز۔ ارضانی کی جگہ۔

الرَّهْمُ مَرْمَمٌ - ج۔ مَرَاهِمٌ -

رَهْنٌ (ر) رَهْنًا - الشَّيْءُ فَلَانَا

وَعِنْدَ فُلَانٍ - گروی رکھنا، دائم

وثابت رہنا۔ اور اسی سے ہے۔

”نِعْمَةُ اللَّهِ رَاهِنَةٌ“ - اللہ کی

نعمت دائم و قائم ہے۔ الشَّيْءُ

ہمیشہ رکھنا۔ بِالْمَكَانِ اِقَامَتْ

کرناد۔ رَهْوْنَا) لا غرور ہونا۔

صفت در آہین (

رَاهِنَةٌ رَهَانًا وَمَرَاهِنَةٌ - عَلَى

الْخَيْلِ - دوڑانے کے لیے شرط

لگانا۔ عَلَى كَذَا - شرط لگانا۔

أَرَهْنَهُ - الشَّيْءَ - کسی کے پاس کوئی

چیز گروی رکھنا۔ أَرَهْنُ فَلَانًا -

کمزور کرنا۔ پیشگی دینا۔ فِي الْمُسْلَعَةِ

گراں کرنا۔ بہت قیمت مانگنا۔

لِصُفْفَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ - ہمان

کے لیے کھانا پینا ہمیشہ میاں رکھنا۔

أَرَهْنُ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ - میت کو

قبر میں رکھنا۔

تَرَاهَنَ - الْقَوْمَ - آپس میں شرط باندھنا۔

أَرَحَنَ - الشَّيْءَ يَمْنَهُ - گروی لینا۔

— بِالْأَمْرِ - کسی بات پر مقید ہونا۔

اسْتَرْهَنَهُ - الشَّيْءَ - گروی طلب کرنا۔

رہن مانگنا۔

الرَّاهِنُ - فَا - تیار۔ ہمیشہ رہنے والا۔

مضبوط۔ ہمیشہ رہنے والی خوراک۔

دُہلا۔

الرَّهْنُ - مَص - گروی۔ کسی شے کی بندش

وروک۔ گروی رکھی ہوئی شے۔

ج۔ رِهَانٌ وَرَهْوَنٌ وَرَهِيْنٌ

وَرَهْنٌ - کہتے ہیں ”رَقِي لَكَ

رَهْنٌ يَكْذًا“ - یعنی میں تمہارے

لیے اس کا ضمان ہوں۔

الرِهَانُ - مَص - خَيْلُ الرِهَانِ -

شرط لگانے کے گھوڑے۔ کہتے ہیں۔

”هُمَا كَفَدَتِي رِهَانٌ“ - وہ

گھوڑ دوڑ کے دو گھوڑوں کی طرح ہیں۔

(یعنی دونوں تساوی ہیں)

الرَّهِيْنُ - گروی رکھا ہوا۔ کسی کے عوض

میں روکی ہوئی شے۔ ”أَنَا رَاهِيْنٌ

بِأَعْمَالِي“ - میں اپنے اعمال میں قابل

مواخذہ ہوں۔

الرَّهِيْنَةُ - گروی رکھی ہوئی چیز۔ ج۔

رَهَائِنٌ - کہتے ہیں ”أَنَا رَاهِيْنَةُ

يَكْذًا“ - میں اس کا اس میں ماخوذ

ہوں یا اس کا ضمان ہوں اور ذمہ دار

ہوں۔ ”وَكُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

رَهِيْنَةٌ“ - ہر نفس اپنے کمائے ہوئے

کے ساتھ گردی ہے۔

الرَّهْنُ - مردہ شے جو کسی چیز کے

عوض روکی جائے۔ الرُّهْنُ

بِالْأَمْرِ - مقید۔ ”كُلُّ الْمُرءِ

بِالْمَوْتِ مُرْتَهَنٌ“ - یعنی ہر آدمی

موت کے ساتھ مقید ہے۔

الرَّهْنَانِمَجٌّ وَالرَّاهِنَانِمَجٌّ - ملاحوں

کا چارٹ یا نقشہ جس کی رو سے وہ

سمند میں راہ دیکھتے ہیں۔

رَهَانٌ رَهْوًا - نرمی کرنا۔ نرم رفتار

چلنا۔ جَاءَتِ الْخَيْلُ رَهْوًا -

گھوڑے ہلکی چال سے آئے۔ ”وَأَرَكَا

عَلَى نَفْسِكَ“ - اپنے نفس پر نرمی

کرو۔ الرَّحْرُ - سمندر کا سکون پذیر

ہونا۔ بَيْنَ رَجْلَيْهِ - دونوں

پاؤں کھولنا۔ الطَّائِرُ پرندہ کا

بازو پھیلاتا۔

رَاهِيْ مُرَاهَاةً - الرَّجُلَ - قَرِيبٌ ہونا۔

جمع ہونا۔ باہم حماقت کرنا۔ اَرَهِيْ

الرَّهَاءَ - کشادہ جگہ میں آنا۔ رہو

پرندہ کے کھانے پر ہمیشگی کرنا۔

لَهُمُ الطَّعَامُ - کھانا ہمیشہ تیار

رکھنا۔ عَلَى نَفْسِهِ نرمی برتنا۔

کہتے ہیں ”أَرَهَيْتُكَ لَكَ“ - میں

نے تم کو اس پر قناعت کیا۔

تَرَاهِيْ - الْقَوْمَ - آپس میں نرمی کا

سلوک کرنا۔

أَرَكْتِي - الْقَوْمَ - آپس میں مل جانا۔

دلپا تیار کرنا۔

الرَّهْوُ - سَارِس - کنگ۔ ج۔ رَهَاءُ

(وَالرَّهْوَةُ) آدمیوں کا گروہ۔

بلند یا پست جگہ۔ يَكْزُرُ رَهْوُ -

چوڑے منہ کا کنواں۔ ثَوْبٌ

رَهْوٌ - باریک کپڑا۔ غَاسِقَةٌ

رَهْوٌ - رگتا رگتا لوٹ۔

الرَّهَاءُ - مِنَ الْأَمَاكِينِ - فراخ و کشادہ

جگہ۔ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - ہر چیز کا

ہموار حصہ۔

الرَّاهِيْ - مِنَ الْعَبِيْشِ - آسودہ زندگی۔

الرَّاهِيَّةُ - مُوْثٌ - (الرَّاهِيْ) شہد کی

مکھی۔

الرَّهِيَّةُ - کوٹے ہوئے گیوں اور دودھ

سے تیار کیا ہوا دلیا۔

الرَّهْوَانُ - پست زمین۔ نرم پیٹھ کے

گھوڑے کو بھی رَهْوَانٌ بولتے ہیں۔

الرَّهَاءُ - جَوَابٌ وَاطْرَفٌ -

الرَّوْحِي - مِنَ الْخَيْلِ - تيز رفتار گھوڑا۔
جولپا ہر تیز نہ معلوم ہوتا ہو، لیکن
مقابلہ کے وقت ہولے باتیں کرتا ہو
ج۔ المَرَاهِي۔

رَهْوَك - الرَّجُلُ - چلنے میں ڈھیلے جوڑوں
والا ہونا۔ الْقَوْمُ - مضطرب
ہونا۔

الرَّهْوَكُ - موٹا بکری کا بچہ یا بہن۔
رَهْيًا - کمزور و سست ہونا، خراب رائے والا
ہونا، بڑھاپے یا سخت محنت سے آنکھوں
کا گڑھے میں بیٹھنا۔ السَّحَابُ
بادل کا برسنے کے لیے تیار ہونا۔

تَرْهِيًا - مضطرب ہونا، بے قرار ہونا، ہلنا۔
فِي امْرٍ - کام میں کاہلی کرنا۔

السَّحَابُ - بادل کا برسنے کیلئے تیار ہونا۔
رَوَّاءُ تَرْوِيًا وَتَرْوِيَةً - فِي الْأَمْرِ
کسی کام کے انجام و نتیجہ پر غور کرنا۔

أَرَوَّاءُ - إِرَوَّاءُ - الْمَكَانُ - درخت
کا کثرت ہونا۔

الرَّوْبِيَّةُ وَالرَّوْبِيَّةُ - غور و فکر۔
الْإِدْنِيَاءُ - تامل و فکر اور سوچ بچار کرنا۔

السَّاءُ - حرف را۔ سمندر کا جھاگ۔
ایک درخت کا نام۔ واحد (رَاعَةٌ)

رَابِدُن، رَوْبَاورُ دُبَا - اللَّبَنُ -
دودھ کا جھنا۔ صفت (رَائِبٌ)

کتے ہیں "رَابِدَمَلَّة" اس کی
ہلاکت کا وقت قریب آپہنچا۔

السَّجُلُ - متحیر ہونا، جھوٹ بولنا۔
عقل میں خلل آنا۔ سست ہونا۔

رَوْبَت - الدَّابَّةُ - جانور کا تھک جانا۔
رَوْبَ وَأَرَاب - اللَّبَنُ - دودھ کا

جما کر دہی کرنا۔
الرَّائِبُ - فَا - دہی۔ الدَّائِبُ

مِنَ الْأُمُورِ - وہ امور جو شبہ و
شک سے پاک ہوں، مشتبہ امور (ضد)

الرَّاب - قدر۔ کتے ہیں "هَذَا رَابُ
كَذَا" یہ اتنی مقدار ہے۔ اندازہ۔

الرَّوْبُ - دہی۔ کتے ہیں "مَا
عِنْدَهُ شَوْبٌ وَلَا رَوْبٌ" اس

کے پاس نہ شہد ہی ہے اور نہ دہی۔
دجھا بودودھ

الرَّوْبَةُ وَالرَّوْبَةُ - وہ چھاپھ جو
دودھ جمانے کے لیے تھوڑی سی اس میں

ملائی جاتی ہے۔ ضامن۔ دودھ کا بقیہ۔
الرَّوْبَةُ - حاجت۔ فُلَانٌ لَا يَقُومُ

بِرَّوْبَةِ أَهْلِهِ - فلاں اپنے اہل
کی حاجت روائی کے لیے تیار نہیں ہوتا

گزران کا ذریعہ۔ محتاجی۔ حیرانی۔
دودھ زیادہ پینے سے کسل و سستی۔

الرَّوْبَةُ مِنَ اللَّحْمِ - گوشت کا
ٹکڑا۔ مِنَ اللَّيْلِ - رات کا

حصہ۔
الرَّوْبُ - اُونگھنے والا۔ حیران۔ سست۔

ج۔ رَوْبِي۔
الرَّوْبِي - چلنے کی وجہ سے سست ہونے

والے لوگ۔ واحد (رَائِبٌ و
رَوْبَانٌ) سِقَاءُ مَرْوَبٌ - وہ

مشک جس میں ضامن ڈال کر دہی
جایا جائے۔

المَرْوَبُ - دودھ جمانے کا برتن۔
رَاثُ دُن، رَوْنًا - الْفَرَسُ - گھوڑے کا

لید کرنا۔
الرَّوْثُ - لید۔ ج۔ أَرَوَاتُ -

الرَّوْثَةُ - رَوْثُ کا واحد۔ ناک کی
چوٹی کا کنارہ۔ کتے ہیں فُلَانٌ يَضْرِبُ

بِلِسَانِهِ رَوْثَةَ الْفَيْءِ - یعنی فلاں
بہت زبان دراز ہے۔ چوپچ۔

الْمَرَاثُ وَالْمَرَوْتُ - مِنَ الْفَرَسِ -
لید کا مخرج۔

رَاثُ دُن، رَوْجَادُ وَاجَا - الْاَهْمُ -

جلدی ہونا۔ السِّلْعَةُ - سامان کا جلد
فروخت ہونا۔ الدَّرَاهِمُ - رواج پکڑنا

- الطَّعَامُ - کھانے کا پک کر تیار ہونا۔
"أَحْضَرْنَا مَا رَاَجَ" جو کچھ دستیاب

و میسر ہو، ہمارے لیے لاؤ۔ رَاَجَتْ
الرَّيْحُ - ہوا کا نام معلوم سمت سے

چلنا۔
رَوَّجَ - الشَّيْءُ - ویک۔ جلد کرنا۔

السِّلْعَةُ وَالْدَّرَاهِمُ - رَاَجَ کرنا۔
- فُلَانٌ كَلَامُهُ - کسی کا اپنے کلام

کو مزین کر کے اس کی حقیقت کو چھپانا۔
مہم کرنا۔

تَرَوَّجَ - حوض کے گرد گرد پھرنا۔ صفت۔
(رَوَّاجٌ)

الرَّوْجَةُ - جلدی، سرعت۔
رَاَحَ دُن، رَوْحًا - شام کے وقت آنا یا

جانا یا کام کرنا۔ وقت کی قید کے بغیر
مطلق جانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔

(رَوَّاحًا وَرَوْحًا) الْقَوْمُ وَالْيَوْمُ د
عِنْدَهُمْ - قوم کے پاس شام کے

وقت جانا۔ (رَوْحًا) الْيَوْمُ
دن کا تیز ہوا والا ہونا۔

رَاَحَ يَرْيَحُ رِيْحًا - الشَّيْءُ - کسی
چیز کی بُو پانا۔

رَاَحَ يَرَاَحُ رِيْحًا - الْيَوْمُ - دن
کا تیز ہوا والا ہونا۔ الْبَيْتُ - گھر

کا ہوادار ہونا۔ کتے ہیں "أَفْتَحَ
الْبَابَ حَتَّى يَرَاَحَ" یعنی دروازہ

کھول کر ہوا آئے۔ الرِّيْحُ الشَّيْءُ -
ہوا لگنا۔ الْقَوْمُ الرِّيْحُ - لوگوں

کا ہوا میں داخل ہونا۔
رَاَحَ يَرَاَحُ رَاَحَةً - لِلْمَعْرُوفِ -

نیکی کرنے کی طرف خوشی سے جلدی کرنا
- يَدُهُ لِلْأَمْرِ - سُبک ہونا۔

- الشَّجَرُ - موسم گرما کے بعد درخت

کاپتے لانا۔ الشیء۔ بوپانا۔
 ”رَاحَ مِنْكَ مَعْرُوفًا“ اس نے
 تم سے بھلائی حاصل کی۔
 رَاحَ يَدَاهُ رَوَاحًا اَوْ رَاحَةً و
 رَاحَةً وَاَرْوَحًا اَرْيَحَةً
 لِلْمَاصِرِ۔ کسی کام کی طرف خوشی سے
 متوجہ ہونا۔

رَاحَتْ تَرَاهُ رَاحَةً۔ الابل۔
 اونٹوں کا شام کے وقت واپس آنا۔
 رَوْحٌ يَرْوَحُ۔ رَوَاحًا۔ کشادہ ہونا۔
 رِيحٌ۔ ہوا لگنا۔ صفت (مَرْوُوحٌ و
 مَرِيحٌ)

رَوْحٌ۔ الْقَوْمُ۔ شام کے وقت قوم
 کے پاس جانا۔ الرَّجُلُ۔ کسی کو
 آرام دینا۔ الابل۔ اونٹوں کو
 بوقت شام اپنے باڑے میں لانا۔
 بِالْجَمَاعَةِ۔ تراویح باجماعت
 پڑھنا۔ قَلْبُهُ۔ کسی کے دل کو
 بیدار کرنا۔

الدُّهْنُ۔ تیل کو خوشبودار بنانا۔
 عَلَيْهِ بِالْمَرْوَحَةِ۔ کسی کو ہلکا
 بھلنا۔

أَرَاخَ إِرَاحَةً۔ الْقَوْمُ۔ قوم کا
 ہوا میں داخل ہونا۔ ہ کسی کو رخت
 میں رکھنا۔ عَلَى فُلَانٍ حَقَّقَهُ۔
 کسی کا حق واپس دے دینا۔
 الابل۔ اونٹوں کو بوقت شام
 باڑہ میں لانا۔ الْمَعْرُوفُ۔
 بھلائی پانا۔ الشیء۔ بوجھوس کرنا
 المَاءُ اَوْ اللَّحْمُ۔ پانی یا
 گوشت کا بدبودار ہونا۔ السَّجْلُ۔
 کسی کا سانس لینا۔ شام کے وقت
 میں داخل ہونا۔ مرنا۔ کہتے ہیں۔
 ”أَرَاخَ فَنَآ رَاحَ“ یعنی اس نے مر
 کر کھ میں ڈالا۔

أَرْوَحَ۔ المَاءُ۔ پانی کا بدبودار ہونا۔
 الشیء۔ بوپانا۔ عَلَيْهِ حَقَّقَهُ
 کسی کا حق واپس دینا۔
 رَاوَحَ۔ بَيْنَ الْعَمَلَيْنِ۔ باری باری
 سے دو کاموں میں مشغول ہونا۔
 بَيْنَ رَجُلَيْنِ۔ باری باری سے
 دونوں پاؤں پر آرام لینا۔

تَرَوَحَ۔ شام کے وقت چلنا یا کام کرنا۔
 الْقَوْمُ۔ شام کے وقت قوم
 کی طرف جانا۔ الشَّجَرُ۔ موسم
 گرما کے بعد درخت کا پتے لانا۔
 النَّبْتُ نَبَاتٌ كَادِرَازٌ هُونًا۔
 المَاءُ۔ پانی کا اپنے قریب کی چیز کے
 اثر سے ہودار ہونا۔ بِالْمَرْوَحَةِ
 ہلکا بھلنا۔

تَرَاوَحَ۔ الرَّجُلَانِ الْأَمَرُ۔ دو آدمیوں
 کا کسی کام کو باری باری سے کرنا۔
 اِرْتَاخَ۔ خوش ہونا۔ چست ہونا۔
 اللَّهُ لَهُ يَرْحَمُهُ۔ اللہ کا کسی
 کو بلا و مصیبت سے چھڑانا۔ کہتے ہیں
 ”هُمَا يَرْوَحَانِ عَمَلًا“ وہ
 دونوں کام کو باری باری سے کرتے
 ہیں۔

اِسْتَرَاخَ۔ اِسْتَرَاخَةً۔ آرام پانا۔
 اَلْبَيْتُ۔ تسلی و سکون پانا۔
 اِسْتَرَوْحَ اِسْتَرَوْحًا۔ آرام پانا۔
 الشیء۔ کسی شے کو سونگھنا۔
 الْغُصْنُ۔ ٹہنی کا بولے حرکت کرنا
 الصَّيْدُ۔ شکار کا انسان کی
 بو پانا۔ الشَّجَرُ۔ درخت کو
 ہرا کرنا۔

الرَّايِحُ۔ فا۔ ج۔ رَوْحٌ۔
 الرَّاحُ۔ مص۔ شراب۔ خوشی۔ نشاط۔
 الرَّاحَةُ۔ مص۔ آرام۔ واصلد الرَّاحُ،
 ہتھیلی۔ کف دست۔ مص۔ کہتے ہیں۔

”تَرَكْتُكَ عَلَى أَلْفَى مِنَ الرَّاحَةِ“
 یعنی میں نے اس کو بالکل تھی دست
 چھوڑا۔ کپڑے کی تہ۔ ج۔ رَاحَاتٌ۔
 الرِّوْحُ۔ آرام۔ باد نسیم۔ انصاف۔ مدد
 خوشی۔ رحمت۔ يَوْمُهُ سَرَوْحٌ۔
 خوشگوار دن۔

الرَّوْحَةُ۔ سَرَاخُ کا اسم مرہ۔ ج۔
 رَوَّحَاتٌ۔ كَيْلُهُ رَوَّحَةٌ۔
 خوشگوار رات۔

الرُّوْحُ۔ جان (مذکر مؤنث) نفس۔ هُوَ
 خَفِيفُ الرُّوْحِ۔ وہ پاکیزہ ہے۔
 وحی۔ اللہ کا حکم و امر۔ قرآن۔ پیغام
 خداوندی۔ جبرائیل علیہ السلام۔
 الرُّوْحُ الْأَعْظَمُ۔ اللہ تعالیٰ۔
 رُوْحُ الْقُدُّوسِ۔ اقا نیم نثارؑ کا
 تیسرا اقنوم۔ نسبت کے لیے رُوْحَانِي
 ج۔ اَرَوَّاحٌ۔ اگلے حکماء اَسْرَاحٌ
 پارے وغیرہ کو بولتے ہیں، یا بعض
 جڑی بوٹیوں، پھولوں اور دانوں کے پھوڑ
 کو بھی کہتے ہیں۔

الرَّوَّاحُ الْخَبِيثَةُ۔ شیطا طین۔
 الرُّوَّاحُ۔ دو ٹانگوں کے درمیان کی چوڑائی
 اور وسعت۔

الرَّوَّاحُ۔ مص۔ شام یا سورج ڈھلنے کے
 وقت سے رات تک اس کا مقابل۔
 ”صباح“ ہے۔ کہتے ہیں۔ ”أَفْعَلُ
 ذَلِكَ رَوَّاحٌ وَصَبَّاحٌ“ میں یہ صبح
 و شام کرتا ہوں۔ ر۔ الرُّوَّاحَةُ و
 الرُّوَّاحَةُ وَالرَّاحَةُ وہ خوشی بولتین
 سے پیدا ہو۔

الرَّيْحُ۔ ہوا۔ (مؤنث) ج۔ اَرِيَّاحٌ
 وَاَرَوَّاحٌ وَاَرِيَّاحٌ وَاَرِيَّاحٌ وَاَرِيَّاحٌ
 اَرَاوِيحٌ وَاَرَاوِيحٌ۔ بو اچھی چیز
 رحمت۔ مدد۔ قوت۔ غلبہ۔ ہوائیں
 چار ہیں الجنوب۔ دکھنی۔ الشمال

اتری۔ الصَّبَا۔ پروائی۔ الدَّبُورُ
پچھوائی۔
الرَّيْحَةُ۔ ہوا۔ بُو۔
الرَّيْحَانُ۔ سرخ شیدوار بُو۔ روزی۔
معیشت۔ ج۔ رَیَا حِیْنُ۔
الرَّيْحَانَةُ۔ پھولوں کا گلستانہ۔
الرَّيْحُ۔ مِنَ الْآیَامِ۔ تیز یا اچھی ہوا
والادون۔
الرَّائِحَةُ۔ مُونٹ رَایحُ۔ بُو۔ ج۔
رَایحَاتُ رَدَایحُ۔ الرَوایحُ
شام کے وقت کی بارش یا بادل۔ کہتے
ہیں۔ مَالَهُ سَارِحَةٌ وَلَا رَایحَةٌ
یعنی اس کے پاس مویشی بالکل نہیں۔
الرَّوْحُ۔ وہ شخص جس کی ٹانگوں کے درمیان
فراخی ہو۔ مُونٹ رُوْحَاءُ۔ ج۔
رُوْحٌ دَوَّارٌ رَیْحُ۔ واسح، کشادہ۔
الرَّیْحُیُّ۔ وسیع الاخلاق آدمی۔
الرَّیْحِیَّةُ۔ انسان کی وہ نیک عادت
جو اس کو اچھے افعال اور فیاضی پر
ابھارتی ہے۔
الرَّوایحُ۔ ترویجہ کی جمع۔ اس
کے معنی مطلقاً بیٹھنے کے ہیں۔ پھر
شب ہائے رمضان میں ہر چار رکعت
نماز کے بعد آرام لینے کے لیے نشست
پر اس کا اطلاق کرنے لگے۔ تراویح
کی پوری بیس رکعت نماز کو بھی تراویح
کہتے ہیں اور اسی طرح چار رکعت کو
ترویجہ۔
الرَّوْحُ رَوَانٌ ہونے کی جگہ۔ واپس
آنے کی جگہ۔
الرَّوْحُ۔ مویشی کے رہنے کی جگہ۔ اَوْتُلُ
گایوں اور بکریوں کا باڑہ۔
الرَّوْحُ وَالْمَرْوُحُ۔ جس کو ہوا لگے۔
یَوْمٌ مَرُوحٌ۔ عمدہ ہوا کا دن۔
الرَّوْحُ وَالْمَرْوُحَةُ۔ پنکھا۔ ج۔

مَرَاوَحُ۔
الرَّوْحَةُ بیابان۔ ج۔ مَرَاوَحُ۔
الرَّوْحُ مَغْ۔ دُھنُّ مَرُوحُ۔
خوشبودار تیل۔
الرَّوْحُ۔ یاغنا۔
رَادٌ یَرُودُ۔ رُودٌ اَوْرِیَادًا۔
الشیء۔ طلب کرنا۔ الارض
کسی زمین میں چراگاہ و پانی وغیرہ کی
تلاش کرنا تاکہ وہ پراؤ وغیرہ کے لیے
مناسب رہے۔ قَوْمُهُ مَدْعَى
أَوْ مَنَزَلًا۔ قوم کے لیے چراگاہ یا
منزل کی تلاش کرنا۔
رَادٌ یَرُودُ رَدَدَانًا وِرِیَادًا۔ کسی
شے کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا۔
رَادَتْ رُودٌ اَوْرُودَانًا۔ الرَّوْحَةُ
عورت کا اپنے ہمسایوں کے گھر زیادہ آنا
جانا۔ الرَّوْحُ۔ ہوا کا نرم چلنا۔
الرَّوْحَةُ۔ مویشی کا چرنا۔
رَادَةٌ مَرَادَةٌ وِرَادَةٌ۔ چاہنا
”رَادَةٌ عَنْ وَعَلَى نَفْسِهِ“
دھوکا دینا۔ گناہ کی ترغیب دینا۔
عَلَى كَذَا۔ ارادہ کرنا۔
رَادَةٌ۔ طلب و جستجو پر اکسانا۔
رَادٌ رَادَةٌ۔ الشیء۔ چاہنا۔ خواہش
کرنا۔ رغبت کرنا۔ عَلَى الْأَمْرِ۔
کسی امر پر اکسانا۔ براہِ یمنہ کرنا۔
رَادٌ رَادٌ اَوْرَادٌ اَوْرَادٌ اَوْرَادٌ
رُودٌ اَوْرُودَاءُ۔ رُودَةٌ۔
— رَفِی السَّیْرِ۔ نرم رفتار سے چلنا
آہستہ چلنا۔
رَادٌ اَرِیَادًا۔ الشیء۔ طلب کرنا۔
اَسْتَرَادَ۔ فرماں بردار ہونا۔ مطیع ہونا۔
— اَمْرًا لِلَّهِ حکم خداوندی کے
سامنے جھک جانا۔ اس کی طرف لوٹ
جانا۔ الدَّابَّةُ۔ جانور کا چرنا۔

الرَّوْجُلُ۔ ادھر ادھر پھر کر روزی کی
تلاش کرنا۔
الرَّایِدُ۔ فَا۔ ج۔ رَادَةٌ وِرَادَةٌ۔ و
رَایِدُونَ۔ جاسوس۔ وہ شخص جس
کو قوم چارہ پانی کے تلاش کرنے کے بھیج
دیتی ہے۔ چلی کا دستہ۔ رَایِدُ
الرَّیْحِ۔ آنکھ میں کھٹکنے والا خس و
خاشاک ”هُوَ رَایِدُ الْوَسَادِ“ وہ
غم کی بے کلی کی وجہ سے غیر مطمئن ہے۔
الرَّادُ۔ بمعنی الرَّایِدُ۔
الرَّیْدُ۔ طلب، تلاش۔
الرَّادَةُ الرَّایِدَةُ۔ والسَّوَادَةُ۔ وہ
عورت جو ہمسایوں کے گھروں میں بہت
چکر لگائے۔
الرَّوْدُ۔ مَص۔ کہتے ہیں۔ ”أَمَشَ عَلَى
الرَّوْدِ“ بلکے چلو۔
رُودٌ۔ اَرُودٌ کا مصدر مضارع۔ کہتے
ہیں ”رُودٌ“ آہستہ۔ ”رُودٌ“ رُودٌ
رُودٌ اَوْرُودٌ رُودٌ رُودٌ
مہلت دو ”رُودٌ اَوْرُودٌ رُودٌ“
یعنی وہ نرمی سے یا آہستہ آہستہ چلے۔
الرَّوْدُ۔ اپنے کام میں آہستگی کرنے والا۔
کہتے ہیں۔ ”الرَّوْدُ اَرُودٌ ذُو
غَیْرِ“ یعنی زمانہ چکے چکے اپنا کام
کرتا ہے۔ پتہ نہیں لگتے دیتا۔
الرَّوْدُ۔ رُوم کی سلائی۔ چرخ کا دھڑا۔ میخ
لگام کے حلقہ کا لوبا۔ ج۔ مَرَادُ۔
الرَّادُ۔ والرَّوْدُ۔ چراگاہ میں اونٹوں
کی آمد و رفت کی جگہ۔
الرَّوْدُ وَالرَّوْدُ وَالرَّوْدُ۔
ریوند جینی (غیر معروف کلمہ ہے)
رَادٌ رُودًا۔ الْحَجَرُ۔ پتھر کو اٹھا کر اس
کے وزن کو جاننا۔ اندازہ کرنا۔
الرَّوْجُلُ۔ آزمانا۔ الدَّیْنَسَا۔
وزن کا پتہ لگانے کے لیے اس کو تولنا۔



— الْأَرْضُ: زمین پر قیام کر کے اس کی اصلاح کرنا۔ قابل کاشت بنانا۔
 — مَا عِنْدَ: طلب کرنا۔ چاہنا۔
 صفت رائے: ج۔ رازۃ۔
 رَوَّزَ: الکلام أو اللوای: کلام یا رائے پر آہستہ آہستہ سوچ بچار کرنا۔
 رَاذَا: کسی کو آزمانا۔
 الرائی: ”رے“ شہر کی طرف منسوب۔
 السَّازِ: معماروں کا سردار۔ ج۔ رَاذَا۔
 الریاذۃ: معمار۔
 المَرَّازُ والمَرَّازِۃُ: وزن و مقدار۔
 المَرَّازِۃُ: دونوں پستان۔
 الروزنامہ: دفتری لفظ سے مرکب ہے روز بمعنی دن اور نامہ بمعنی کتاب ہے۔
 روزنامچہ: کیلنڈر۔ جنتی۔
 رَاسَ یَرُوسُ رَوَّسًا: متکبرانہ چال سے چلنا۔ بہت کھانا۔ السَّیْلُ الغُثَاءُ: سیلاب کا کوڑا کرکٹ ہلے جانا۔
 اسْتَرَّاسَ: کھانا مانگنا۔
 السَّوْسُ: مص۔ آدمی۔ ”رَوَّسُ سُوْءٍ بَاطِلٌ شَرِیْرٌ اَدَمِ: عیب۔ بسیار خوری۔
 الرَوَّاسُ: الادویۃ وادیوں کی چوٹی۔
 رَوَّاسُ السَّحَابِ: اگلے بادل۔
 رَاشِ یَرُوشُ رَوَّشًا: بہت کھانا۔
 — ۵ المَرَّضُ: مرض کا کسی کو کمزور و ناتواقت کر دینا۔
 الرَّاشُ: مِنَ الْجَمَالِ أَوِ الرَّمَّاحِ کمزور اونٹ یا نیزہ۔ یہ رَاشِ کا مخفف ہے۔ مَوْنُثُ: رَاشِۃُ۔
 الرُّوشُ: عقل کی کمی۔
 الرُّوشُ: کم عقل۔ مَوْنُثُ: رَوَّشًا۔
 رَاضٍ دُنْ: رَوَّصًا: بیوقوفی کے بعد سمجھ دار ہونا۔

رَاضٍ یَرُوضُ: رَوَّصًا وریاضۃً و ریاضًا۔ المَهْرُ: بھیرے کو سدھانا۔ رام کرنا۔ چلنا سکھانا۔ صفت (رَاضٍ) ج۔ رَاضِۃُ و رَوَّاضُ و رَوَّضُ و رَاضِیُّونَ: صفت مفعولی (مَرَّوَضُ)۔ مَوْنُثُ مَرَّوَضِۃُ۔
 رَوَّضُ: المَهْرُ: بھیرے کو خوب سدھانا۔ الرَّجُلُ: کسی کا باغوں میں رہنا۔ المَطَرُ الْأَرْضُ: بارش کا زمین کو بارش و ہمار کر دینا۔
 رَاوَضَ عَلَی الْأَمْرِ: کسی کو کسی کام پر بہلا بھسلا کر لگانا۔
 آراضَ: إِرَاضِۃُ: سیراب ہونا۔ القوم: سیراب کرنا۔
 المَکَانُ: کسی جگہ باغات بکثرت ہونا۔ الْأَرْضُ: زمین کو بارش و ہمار بنا دینا۔ الْحَوْضُ: حوض کی تہ کا پانی سے ڈھلکا۔
 أَرَوَّضَ: المَکَانُ: کسی جگہ کاسبزہ سے ڈھک جانا اور بکثرت باغات والی ہونا۔ الْأَرْضُ مِنَ المَطَرِ: زمین کا بارش سے تر ہونا۔
 تَرَاوَضَ: القوم: رَفِی الْأَرْضِ: لوگوں کا کسی امر میں آپس میں متناظر کرنا۔
 — رَفِی البَیْعِ أَوِ الشِّرَاءِ: خرید و فروخت میں آپس میں جھگڑنا۔
 إِرْتَاضَ: المَهْرُ: بھیرے کا سدھ جانا۔ إِرْتَاضِۃُ القَوَّافِی الصَّغْبِۃُ لِلشَّاعِرِ: شاعر کو مشکل مشکل قافیے سُوْجھے۔
 اسْتَرَّاضَ اسْتِرَاضِۃُ: کسی جگہ کا پانی سے سیراب ہونا۔ وادی یا تالاب میں پانی کا گھڑنا۔ کشادہ ہونا۔
 النَّفْسُ خَوْشٌ ہونا۔ المَکَانُ:

کسی جگہ کا بکثرت باغات والی ہونا۔
 السَّوْسُ: مص۔ قسم قسم کے باغات سے سرسبز جگہ۔
 الرُّوَصۃُ: باغ۔ ج۔ رَوَّضُ وریاضُ و رَوَّضَاتُ و رَیْضَانُ: رَوَّضَاتُ الْجَنَّاتِ: باغات کی پرہیزگاری۔
 الرُّوَصۃُ: حوض میں بچا ہوا پانی۔
 الرِّیْضِۃُ: الرُّوَصۃُ میں ایک لغت الرِّیاضِۃُ: جسمانی ورزش۔ بری حالت سے اچھی حالت کی طرف تبدیلی۔ انسانی اخلاق کی اصلاح و درستی، عبادت و مراقبہ کے لیے عزت گزینی و گوشہ نشینی۔
 العِلْمُ الرِّیاضِیُّ والعِلْمُ الرِّیاضِیَّاتِ: علم حساب، الجبر، جامیٹری وغیرہ علوم۔
 الرِّیْضُ: وہ جانور جس کو سدھانا شروع ہی کیا ہو۔ اَمْرٌ رَیْضٌ: غیر حکم کام۔ کم تدبیر سے کیا ہوا کام۔
 المَرَّاضُ: نرم، پست زمین۔ سخت جگہ جو پانی کو روک لے۔ ج۔ مَرَّاضُ و مَرَّاضَاتُ: أَرْضٌ مُسْتَرَوِضۃُ: اچھی نباتات اگانے والی زمین۔
 رَاطٌ یَرُوطُ و یَرِیْطُ: رَوَّطًا و رَیْطًا۔ بِالْمَکَانِ: کسی جگہ پناہ لینا۔ رَاعٌ یَرُوعُ رَوَّعًا و رَوَّعًا: مَنۡعُ: کسی سے ڈرنا۔ صفت۔ (رَایِعٌ و رَوَّعٌ)۔ فی یَدِیْ کَذَا: ہاتھ میں مضبوط ہونا۔ رَاعِ الْأَمْرِ: ڈرنا۔ گھبرا دینا۔ تعجب میں ڈالنا۔
 رَاعٌ یَرُوعُ و یَرِیْعُ سَوَّاعًا: لوثنا۔ واپس ہونا۔
 أَرَاعَهُ و رَوَّعَهُ: گھبرا دینا۔ ڈرانا۔ تعجب میں ڈالنا۔



رَوَّعَ رَوْعًا - خوش کن ہونا۔ سمجھ دار ہونا
 اَرَوَّعَ اِرْوَاعًا - المَآخِی بِالْعَتَمِ
 چھوڑے گا بکریوں کو ڈانٹنا۔ لٹکانا۔
 اِرْتَاعَ وَتَرَوَّعَ - مِنْهُ وَلَدٌ - ڈرنا
 - اِرْتَاعَ لِلْخَبَرِ - خبر سے خوش
 ہونا۔

الرَّوْعُ خَوْفٌ - ڈر۔ ڈرائی۔
 الرَّوْعَةُ - ڈر۔ ڈر۔ ڈر۔ ڈر۔ ڈر۔ ڈر۔
 الرَّوْعُ - دل کا سیاہ داغ یا اس میں
 ڈر کی جگہ۔ ذہن و عقل۔ کہتے ہیں۔
 "أَفْرِغْ رَوْعَكَ" یعنی سکون و
 اطمینان قلب ہاتھ سے نہ دو۔

الرَّوْعُ - اَرَوَّعَ - کا اسم۔
 اَلرَّوْعُ - حَسَنٌ یا بَہَادَرِی کی وجہ سے
 تعجب میں ڈالنے والا۔ ہوشیار۔ ذکی
 جر۔ رَوَّعٌ - وَارَوَّاعٌ - مَوْنُثٌ۔
 رَوَّعًا - قَلْبُ اَرَوَّعٌ - ڈرپوک
 دل۔ رَوَّاعُ الْقَلْبِ - ہوشیار۔
 ذکی۔ چرکنے دل والا آدمی۔

الرَّائِعُ - فَا - اپنے حسن یا شجاعت سے
 لوگوں کو تعجب میں ڈالنے والا۔ حیران کرنے
 والا۔ جر۔ رَائِعُونَ وَرَوَّعٌ - مَوْنُثٌ
 رَائِعَةٌ - جر۔ رَوَّاعٌ وَرَوَّعٌ -
 کلام رَائِعٌ - خوش کن کلام۔
 رَائِعَةُ الشَّيْبِ - بڑھاپے کا آغا
 رَائِعَةُ النَّهَارِ - اوالضحی۔ دن
 یا چاشت کا بڑا حصہ۔

الرَّوَّعُ - بہت خوف زدہ۔ تیز فہم۔

بَارِکْ بِن -
 رَاغِدُن رَوَّعًا وَرَوَّعًا - الصَّيْدُ
 شکار کا ادھر ادھر جانا۔ الرَّجُلُ
 کسی کا مکر و فریب سے راستہ سے
 الگ ہونا۔ بچ بچ کر چلنا۔ اِلٰی
 کَذَا۔ چپکے سے کسی طرف مائل ہونا۔
 - عَلَیْهِ بِالضَّرْبِ - مارنے کے

لے لٹ پڑنا۔
 رَوَّعَ - اللُّقْمَةُ فِي الدَّسَمِ - لقمہ کو
 چکنائی میں خوب بھگوننا۔ الٹ پلٹ
 کر کے چکنائی کو اس میں جذب کرنا۔
 رَاوَعَهُ مَرَاوَعَةً - کشتی لڑنا۔ دھوکا
 دینا۔ رَاوَعَهُ عَلَى الْأَمْرِ - ورغلانا
 پھسلانا۔ رَاوَعَهُ الْقَوْمُ - ایک
 دوسرے کو فریب سے طلب کرنا۔
 اَرَاغَهُ اِرَاغَةً وَارْتَاغَهُ -
 اِرْتِیَاغًا - مکر و فریب سے طلب
 کرنا۔ کہتے ہیں: اِرْتَاغَ الْعُقَابِ
 الصَّيْدُ - عقاب نے اپنے شکار کے
 پیچھے ادھر ادھر جگہ کاٹے۔ اَرَاغَهُ
 عَلَى أَمْرٍ وَعَنْ أَمْرٍ - ہلا پھسلا کر
 مانگنا۔ تَرَوَّعَ - الْجَمَارُ - گدھے کا
 مٹی میں لٹنا۔

تَرَاوَعًا - ایک دوسرے کو فریب دینا۔
 آپس میں کشتی لڑنا۔
 الرَّائِعُ - فَا - طَرِيقٌ رَائِعٌ - طیرھا
 راستہ۔

الرَّوَّاعُ وَالرَّوَّاعَةُ - مکر و فریب۔
 الرَّوَّاعُ - بہت جلد گر۔ فریبی۔ لومڑی۔
 الرَّوَّاعُ - سرسبز۔
 الرَّوَّاعَةُ وَالرَّوَّاعَةُ - کشتی لڑنے کا
 اکھاڑہ۔

رَاوَّعَ يَرَاوُعُ - رَوْفًا - بے حرکت ہونا۔
 الرَّوْفَةُ - رحمت۔

رَاوَّعَ يَرَوُّقُ - رَوَّقًا - الشَّرَابُ -
 صاف ہونا۔ علیہ۔ فضیلت میں
 کسی سے زائد ہونا۔

رَاوَّعَ رَوَّقًا وَرَوَّقًا نَا - الشَّيْءُ -
 کسی چیز کا پسند آنا۔ خوش کرنا۔ تعجب
 میں ڈالنا۔

رَوَّقَ يَرَوَّقُ رَوَّقًا - اوپر کے لیے
 دانتوں والا۔

رَوَّقَ - الشَّرَابُ - صاف کرنا۔ رَوَّقَ
 بِضَاعَتَهُ - ایک سامان بیچ کر اس
 سے اچھا سامان خریدنا۔ رَوَّقَ و
 اَرَوَّقَ وَارَوَّقًا - اللَّيْلُ - رات
 کا تاریکی پھیلانا۔

رَوَّقَ - الْبَيْتُ - گھر کا سا بنان تیار
 کیا جانا۔

رَاوَّقَهُ مَرَاوَقَةً - ایک دوسرے کے
 مقابل برآمدے رکھنا۔ کہتے ہیں: هُوَ
 مَرَاوِقِيٌّ - اس کا برآمدہ میرے
 برآمدے کے سامنے ہے۔ اَرَاقَ
 اِرَاقَةً - الْمَاءُ - پانی بہانا۔ ڈالنا
 - دَمَكَةً - خون بہانا، یعنی قتل کر
 دینا۔

الرَّائِقُ - فَا - ج - رَوَّقُ وَرَوَّقَةٌ -

الرَّوَّقُ - مَع - سینگ - مِنْ

الْبَيْتِ - سائبان - مِنْ

الشَّبَابِ - جوانی کا آغاز اور اس کی

بہار - مِنْ الْخَيْلِ - ابھی ساخت

کا خوبصورت گھوڑا - مِنْ الْكَلْبِ -

رات کا ایک حصہ - مِنْ السَّحَابِ

سائبان کی طرح چھایا ہوا بادل -

مِنْ الْمَاءِ وَنَحْوَهُ - صاف -

رَوَّقُ الْفَرَسِ - وہ نیزہ جو گھوڑے

کے کانوں کے درمیان رکھا ہو - ایسی

حالت میں گھوڑے کو (اَرَوَّقَ) کہتے

ہیں - السَّوَّقُ - خالص محبت - چیز

کی زیادتی - بارش - عمر - پمہ - خیمہ -

جماعت - سردار - بہادر - جسم - شکاری

کی جگہ جر - اَسْرَاقٌ - کہتے ہیں -

"دَاهِيَةٌ ذَاتُ رَوَّقَيْنِ" بڑی

مہمیت - وَرَّعِي بِأَوْرَاقِهِ عَلَى

الْبَدَنِ - وہ جانور پر سوار ہوا -

"أَلْقَى بِأَوْرَاقِهِ عَنِ الدَّابَّةِ" -

وہ سواری سے اتر پڑا - أَلْقَى أَوْرَاقَهُ -

وہ تیز دوڑا۔ یا اطمینان کے ساتھ کسی جگہ اقامت کی۔ "وَضَرَبَ رَوْقَهُ يَمْنُزِلُ كَذَا" فلاں جگہ اتر کر خیمہ زن ہوا۔ "وَأَلْقَتِ السَّحَابَةُ أَوْرَاقَهَا" بادل بہت زور سے برس پڑا۔

الرَّوَاقِيُّ وَالرَّوَاقِيُّ - برآمدہ، سائبان۔ یا گھر سے آگے چھت سے نیچے تک چھوڑا ہوا پردہ۔ ج۔ اَرْوَاقٌ وَرَوَاقَاتٌ وَرُوقٌ - درِوَاقُ الْعَبِينِ - ابرو۔ رَوَاقُ اللَّيْلِ - رات کا اگلا حصہ۔

الرَّوْدُقِيُّ صَافِي يَاجْهَلِي، وہ برتن جس میں شراب صاف کی جائے۔ پیالہ۔ رَيْقُ الشَّبَابِ - آغاز جوانی و سُنْ جوانی۔ جوانی کی رونق۔ کہتے ہیں "كُنْتُ فِي رَيْقِ ذِمَّائِي" میں اپنے زمانہ کی ابتداء میں تھا۔ وَرَيْقُ كُلِّ شَيْءٍ - ہر چیز کا بہتر حصہ۔

الرَّوْقُ - اوپر کے دانوں کا لمبا ہونا۔ جو عیب شمار ہوتا ہے۔

الرَّوْقَةُ - بہترین حُسن و جمال۔ السَّوْقَةُ - رائق کی جمع۔ برگزیدہ لوگ۔ غِلْمَانُ رَوْقَةٍ - حسین لڑکے۔

دواحد۔ جمع، مذکر، مؤنث، سب میں یکساں مستعمل ہے۔ الرَّوْقُ - سینک والا۔ اوپر کے لمبے دانوں والا۔

الرَّوْقُ - صاف کیا ہوا۔ بَيْتُ مَرَّوْقٍ - سامنے پردہ چھوڑا ہوا مکان۔

رَوَّلَ - القَدَسُ - گھوڑے کی رال ہنا۔ رَوَّلَ الْخُبْرُ - روٹی کو گھی میں جھکونا۔ الرِّوَالُ - گھوڑے کی رال۔ ج۔ رَوَّالٌ وَرَوَّالٌ - بہت رال گرانے والا۔

رَامَ دَن، رَوْمًا وَمَوَامًا - الشَّيْءَ -

ارادہ کرنا۔ صفت (رَامٌ) ج۔ رَوْمٌ وَرَوَامٌ -

رَوْمٌ - ٹھہرنا۔ فَلَانًا وِیْدَ - خواہش دلانا۔ ارادہ کرنا۔ رَايَةً - کیے بعد دیگرے چیزوں کا ارادہ کرنا۔ تَرَوَّهَ - یہ۔ ٹھٹھا کرنا۔

الرَّوَامُ - ایک درخت۔

الرَّامَةُ - چشمہ۔ جوہر۔ الرُّومُ وَالرُّومُ - کان کی لو۔

الرُّومُ وَالْأَسْرَافُ - بحر متوسط کے شمال میں رہنے والے لوگ۔ عیسائیوں کے ایک فرقہ کا نام۔ بحسب الروم۔ بحر متوسط، جس کو بحر ابیض بھی کہتے ہیں۔

رُومَةٌ وَرُومِيَّةٌ - دنیا کا مشہور اور قدیم ترین شہر جو اٹلی کا دارالسلطنت ہے۔ نسبت کے لیے رُومَانِيٌّ -

الرَّوَامُ - مقصد۔ مطلب۔ ج۔ مَوَامَاتُ دَانَ يَرْدُونَ رُومًا - الأَمْرُ سَخِطَ

ہونا۔ رَأَيْتِ اللَّيْلَةَ - رات کی ہول کا سخت ہونا۔ الرُّومُ - سختی۔

ج۔ دُؤُونٌ -

رُومَةٌ - الشَّيْءُ - چیز کی سختی اور اس کا بڑا حصہ۔

الرَّوْمَانُ - سخت۔ دشوار۔ الرُّومَانُ وَالرُّومَانِيٌّ - ہر چیز کی سختی و تیزی۔

مثلاً سروی و گرمی، خوشی غمی وغیرہ کی۔ مؤنث۔ اَرُومَانَةٌ وَارُومَانِيَّةٌ -

مَرُومٌ - یہ۔ منسوب۔

رَاكَ دَن، رَوْهَا وَرَوَّاهَا - المَاءُ - پانی کا سطح زمین پر لہریں مارنا۔

رَوَّى دَضَ، رَوَّايَةً - الْحَدِيثُ - حدیث نقل کرنا۔ بیان کرنا۔ صفت (رَاوٍ) ج۔ رَوَّاءَةٌ وَرَاوُونَ - الْحَبْلُ -

رسی بٹنا۔ الرِّحْلُ - کجاوہ کو اونٹ

پررسی سے باندھنا۔ القَوْمَ - قوم کے لیے پانی لانا۔ طلب کرنا۔

رَوَّى دَسَ، رَيَّاءً وَرَيَّاءً وَرَوَّى - مِنَ الْمَاءِ - پانی سے سیراب ہونا۔

صفت (رَيَّانٌ) - مَرْنُوتٌ رَيَّانٌ - ج۔ رَوَّاءُ الشَّجَرِ - درخت کا سرسبز ہونا۔

رَوَّى تَرَوَّيَةً - سفر میں پانی ساتھ لے جانا۔ هُ الشَّعْرُ - شعر کی روایت

کرنے پر آمادہ کرنا۔ النِّبَاتُ - پودے کو پانی پلانا۔ رَوَّى فِي

الْأَمْرِ - کسی امر میں سوچ بچار کرنا۔ اَرَوَّى اِرْوَاءً - فَلَانًا - اَلشَّعْرُ -

سیراب کرنا۔ پیاس بجھانا۔ شعر کی روایت پر آمادہ کرنا۔

تَرَوَّى تَرَوَّيَا - سیراب ہونا۔ غورو فکر کرنا۔ الْحَدِيثُ - حدیث کی

روایت کرنا۔ نقل کرنا۔ القَوْمَ - قوم کا سفر میں پانی ساتھ لے جانا۔

اِرْتَوَى اِرْتَوَاءً - مِنَ الْمَاءِ - سیراب ہونا۔ الْحَبْلُ - رسی کا

بٹنا۔ مَقَاصِلُ - جوڑوں کا سخت اور معتدل ہونا۔

الرَّيَّانُ - سیرابی۔ نعمت کی فراخی و فراوانی۔ الرُّوَّى - سیراب کرنے والا بہت پانی۔

الرَّوَّى - سیرابی۔ زرخیزی۔ الرَّيَّانُ - عمدہ خوشبو۔ عَيْنٌ رَيَّةٌ - بہت پانی

والا چشمہ۔ کہتے ہیں۔ "مِنْ أَيْنَ رَيَّتُكَ" یعنی تم پانی کہاں سے لاتے ہو۔

الرَّيَّةُ - پانی پینے کی طرف کا بھیڑنا۔ رَيَّةُ الْبَحْرِ - ایک سمندری جانور۔

الرُّوَّى - مِنَ الشَّرْبِ - پوری سیرابی۔ کہتے ہیں "شَرِبْتُ شَرَبًا رَوَّيًّا" میں نے خوب رچ کر پانی پیا۔ مَاءٌ

www.waseemziyai.com

رَوِيٌّ - بہت اور سیراب کرنے والا پانی - الرَوِيٌّ - زور سے بارش برسانے والا بادل - تندرست، سالم العقل اور صحیح البدن - پلانے والا - قافیہ کا حرف - الرَوِيَّةُ - مؤنث الرَوِيَّ - امور میں غور و فکر - حاجت - قرض وغیرہ کا بقیہ - الرَيَّانُ - سیراب - سرسبز مٹی - مؤنث - رَيَّانٌ - ج - رَوَاءٌ - وَجْهٌ رَيَّانٌ - پر گوشت چہرہ - فُلَانٌ رَيَّانٌ مِنْ الْعِلْمِ - فلاں بہت علم والا ہے - الرَوَاءُ - ج - اَرْوِيَّةُ (الرَمَوِيَّةُ) - ج - مَوَادٍ وَمَوَادِي - جانور پر سامان باندھنے کی رسی - الرَوَاءُ - سیٹھ پانی - الرَوَاءُ غُوشِ مَنْظَرٍ - چہرہ کی آب و تاب - الرَوَايَةُ - حدیث یا شعر کا راوی - تا مبالغہ کے لیے ہے - ج - رَوَايَا - وہ جانور جس پر پانی لا کر لایا جائے - پانی لانے کی مشابہت - الرَوِيَّةُ وَالرَوِيَّةُ - پہاڑی بکری - (مذکورہ مؤنث) - ج - اَرَاوِيٌّ وَارَاوِيٌّ رَابِيَةٌ يَرْبِيَّةٌ - دَبَّيْهَا - کسی کو شک یا تہمت میں ڈالنا - کسی سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھنا - اَرَابِيَّةٌ اَرَابِيَّةٌ - شک میں ڈالنا - تہمت لگانا - بے قرار کرنا - الرَّجُلُ اَوْ الْاَمْرُ قَابِلٌ شَكٍّ هَوْنًا اَرَابِيَّةً مِنْهُ اَمْرٌ اس نے اس کے ساتھ بدگمانی کی اور تہمت کا یقین نہیں کیا - تَرَيِّبٌ - تَرَيِّبًا - مِنْهُ - خوفزدہ ہونا ڈرنا - يَلَمُّ - کسی سے کوئی شک میں ڈالنے کی بات کہنا - اِدْرَتَابٌ اِدْرَتَابًا - مِنْ الشَّيْءِ - کسی چیز میں شک کرنا - بِفُلَانٍ - کسی پر تہمت لگانا -

اِسْتَرَابٌ اِسْتَرَابَةً - شک میں پڑنا - کسی سے کوئی شک کی چیز دیکھنا - الرَّيْبُ - تہمت - شک - حاجت - ضرورت - گردش - بے اعتقادی - الرَّيْبَةُ - شک - تہمت - بے یقینی - بے کلی - ج - رَيْبٌ - اَمْرٌ رَيَابٌ - ڈالنے والا معاملہ - رَاثٌ يَرِيثُ - رَيْثًا وَتَرِيثٌ - دیر کرنا - تاخیر کرنا - رَيْثٌ - تھکنا - الشَّيْءُ - نرم کرنا - اَرَاثَنَ - اِسْرَاثَنَ - دیر کرنا - اِسْتَرَاثَنَ اِسْتَرَاثَةً - دیر کرنے والا پانا یا سمجھنا - الرَّيْثُ - زمانہ کی مہلت کا عرصہ یا مقدار - دیر - کہا جاتا ہے - وَقَفْتُ رَيْثَمًا صَلِيْنَا - وہ ہمارے نماز پڑھنے تک ٹھہرا رہا - الرَّيْثُ - سُسْتُ - دیر کرنے والا - رَجُلٌ مَرِيثٌ الْعَيْنِ - کمزور نظر کا آدمی - رَاخٌ يَرْيَخُ رَيْخًا وَرَيْخَانًا - دَبَّوْخًا - ذیل ہونا - ڈھیل ہونا - رَيْخُذٌ - سُسْتُ کرنا - کمزور کرنا - رَاَسٌ يَرْيِسُ رَيْسًا وَرَيْسَانًا - متکبرانہ چال چلنا - الشَّيْءُ - کسی شے کی پوری حفاظت کرنا - الْقَوْمُ - غالب آنا - برتری حاصل کرنا - الرَّيْسُ - قوم کا سردار - رَاَشٌ يَرْيِشُ - رَيْشًا - مال و سامان جمع کرنا - کھلانا - پھنانا - رَوِيٌّ كَاطِرٌ - مدد کرنا - غنی بنانا - مَالٌ - کسی کو مال دینا - مَنْ حَالِيهِ - کسی کے حال کی اصلاح کرنا - کہتے ہیں - فُلَانٌ لَا يَرْيِشُ وَلَا يَرِيٌّ - فلاں نہ نقصان دہ ہے

نہ نفع رساں - وَلَا تَرِشْ عَلَيَّ - میرے کلام میں دخل نہ دو - د - اَرَاَشٌ وَرَيْشٌ السَّهْمُ - تیر میں پر لگانا - رَكِيَشٌ السَّهْمُ فُلَانًا - بیماری کا کسی کو کمزور کر دینا - اَرَتَاَشٌ - السَّهْمُ - تیر میں پر لگانا - د - تَرَكِيَشٌ - آسودہ حال ہونا - الرَّيْشُ - پرندے کے پر - واحد (رَيْشَةٌ) - ج - رِيَاشٌ وَارِيَاشٌ - الرَّيْشُ - فَاخِرٌ لباس - سامان و اسباب - مال - سرسبز، معاش - الرَّاشُ - پرندے کے پر - ج - اَرِيَاشٌ - جَمَلٌ رَاشٌ - کمزور اونٹ - رَجُلٌ رَاشٌ - مالدار آدمی - رَمَحٌ رَاشٌ - کمزور نیزہ - طَيْرٌ رَاشٌ - پر نکلا ہوا پرندہ - مَوْنَثٌ (رَاشَةٌ) - كَلَامٌ رَيْشٌ وَرَيْشٌ - بہت پتوں والی گھاس - الرَّيْشُ - کان یا چہرے پر کے گھنے بال - الرَّيَاشُ - لباس فاخرہ اور عمدہ سامان - سرسبز - معاش - مال - الرَّيَاشُ - تیروں پر پر لگانے والا - الرَّايَشُ - فَا - رشوت کا دلائل - پر لگا ہوا تیر - الرَّايَشُ - کانوں یا چہرے پر بہت بال رکھنے والا - مَوْنَثٌ (رَاشَةٌ) - ج - رَيْشٌ - رَجُلٌ اَرِيَشٌ - مال و لباس والا - الرَّيْشُ وَالْمَرَكِشُ - مِنَ السَّمَكِ - پر لگایا ہوا تیر - وَالْبُرْدُ الْمَرَكِشُ - وہ چادر جس پر پتوں کی تصویریں بنی ہوں - الْمَرَكِشُ بہت بالوں والا - کم گوشت والا - کمزور پشت والا - الْمَرَكِشُ - مِنَ الدِّجَالِ - شاہی اعزاز کا پر پگڑی میں رکھنے والا - الرَّيْطَةُ - ایک پاٹ کی چادر - ہر چادر نما



کڑا۔ کن۔ ج۔ رَیْطٌ وریاط۔
 رَاعٌ یَرِیْعُ رَیْعًا وریعًا وریاعًا۔
 وریعًا۔ الشیءُ نشو و نما پانا
 زیادہ ہونا۔ الزرعُ کھیتی کا
 بڑھنا۔ د۔ رَیْعًا، السَّرَابُ
 سراب کا حرکت کرنا۔ مِنْهُ۔ ڈرنا
 — عَنْهُ وَالْیَمِّ۔ واپس آنا۔
 فَلَا تُلَاحِظْ لَیْ رَیْعٌ کَلَامُکَ یعنی
 فلاں تمھاری بات نہیں مانتا۔
 رَیْعٌ۔ القومُ جمع ہونا۔ الطَّعَامُ۔
 بڑھنا۔ زیادہ ہونا۔ الطَّعَامُ۔
 بڑھنا۔ زیادہ کرنا۔
 أَرَاعَ إِرَاعَةً۔ الزرعُ فصل کا بڑھنا
 — القومُ قوم کی فصل کا نشو و نما
 پانا۔ اِزْدِیْلُ۔ اونٹوں کا بکثرت
 بچے دینا۔
 تَرَیْعٌ۔ ٹھنڈا۔ مضطرب و حیران ہونا۔
 المَاءُ پانی کا جاری ہونا۔ السَّرَابُ
 سراب کا چلنا بھٹنا۔ القومُ۔
 لوگوں کا جمع ہونا۔ یَدٌ اِکْرَابٌ لَجُودٍ
 بخشش کا ماتہ کھولنا۔
 اسْتِرَاعٌ اسْتِرَاعَةً۔ حیران ہونا۔
 یَدٌ اِکْرَابٌ لَجُودٍ۔ سخاوت کی داد
 دینا۔
 الرِّیْحُ۔ م۔ سراب کی حرکت۔ خوف۔
 — مِنْ کُلِّ شَیْءٍ ہر چیز کا اول اور
 بہتر حصہ۔ مِنْ الضَّحٰی چاشت
 کے وقت کی روشنی۔ مِنْ الدَّرَجِ۔
 دامن و آستین کی زیادتی۔ الرِّیْحُ
 ہر چیز کی زیادتی۔ کہتے ہیں "لَیْسَ
 لَکَ رَیْعٌ" اس کے لیے پیلواری
 نہیں۔
 الرِّیْحُ۔ بلند ٹیلہ۔ اونچی جگہ۔ ہسٹری
 کشادہ راستہ۔ وادی کی بلندی
 سے پانی بہنے کی جگہ۔ گرجا۔ کبوتروں کا

برج۔ ج۔ رِیَاعٌ وریوعٌ و
 اَرِیَاعٌ۔
 الرِّیْعَةُ۔ بلند زمین۔ اکٹھی جماعت۔
 الرِّیْعَانُ۔ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ ہر چیز کا
 اول اور عمدہ حصہ۔ "أَسْرَ مِنْ
 مَوِیْعَةٍ" زرخیہ زمین "مَطَرٌ
 مُرِیْعٌ" سرسبز و خوشحال لانے والی
 بارش "ثَاقِلَةٌ رَیْعَانَةٌ وَمَوِیَاعٌ"
 بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔
 رَافٌ یَرِیْفُ رَیْفًا وَاَرِیْفٌ اَرِیْفًا۔
 و تَرِیْفٌ۔ سرسبز زمین میں آنا۔
 دَافَتْ المَاشِیَةُ۔ مویشی کا سبزہ
 چرنا۔
 رَایَفٌ۔ مَوِیْعَةٌ۔ لِلظَّنَّةِ شک کے
 قریب ہونا۔
 اَرَافٌ اَرَافَةً وَاَرِیْفٌ اَرِیْفًا۔
 المکانُ کسی جگہ کا سرسبز ہونا۔
 الرَافُ۔ شراب۔
 الرِّیْفُ۔ سبزہ زار۔ پانی کے قریب کی
 زمین۔ ج۔ اَرِیَافٌ و رِیُوفٌ۔
 الرِّیْفُ۔ کھانے پینے کی فراخی و
 فراوانی۔ مکانٌ رَیْفٌ۔ سرسبز
 جگہ۔
 رَاقٌ یَرِیْقُ رَیْقًا۔ المَاءُ عَلٰی
 وَجْهِ الارْضِ۔ پانی کا سطح زمین پر
 بہہ پڑنا۔ الشیءُ چمکنا۔
 السَّرَابُ۔ سراب کا چمکنا۔ حرکت
 کرنا۔ د۔ رَیْقًا و سَرِیْقًا
 بِنَفْسِهِ۔ جان دینا۔
 رَیْقَةٌ۔ السَّرَابُ۔ صاف شراب پلانا۔
 اَرَاقٌ۔ اَرَاقَةٌ۔ المَاءُ پانی گرانا۔
 تَرِیْقٌ۔ السَّرَابُ۔ سراب کا چمکنا۔
 حرکت کرنا۔
 الرِّیْقُ۔ م۔ باطل، پانی، بغیر سالن کے
 روکھی روٹی د۔ و الرِّیْقُ والرِّیْقُ

ہر چیز کا اول اور عمدہ حصہ۔
 الرِّیْقُ۔ ج۔ اَرِیَافٌ و رِیُوفٌ و الرِّیْقَةُ
 تنوک۔ کہتے ہیں "إِنِّیْ عَلٰی الرِّیْقِ"
 میں نے ابھی تک کچھ کھایا یا نہیں، یعنی
 نہار منہ ہوں۔ "شَرِیْتُ عَلٰی الرِّیْقِ"
 و عَلٰی رِیْقِ النَفْسِ اَوْ رِیْقَةِ
 النَفْسِ" میں نے نہار منہ پیا۔
 الرِّیْقُ۔ بقیہ جان۔ قوت۔
 الرِّیْقُ۔ ف۔ خالص، نہار منہ والا۔
 تہی دست، روکھی روٹی۔ نہار منہ پیا
 جانے والا پانی۔
 الرِّیْقُ۔ نہار منہ والا۔
 رَاقٌ یَرِیْقُ رَیْقًا۔ الصَّبِیُّ۔ بچہ
 کے منہ سے مال ٹپکنا۔
 الرِّیَالُ۔ رال، چاندی کا بڑا سکہ۔
 رَاقٌ یَرِیْقُ رَیْقًا۔ حَمَلُ البعیرِ۔
 اونٹ کے بوجھ کا جھکنا۔ المکانُ
 و مِیْنَةُ کسی جگہ سے جدا ہونا۔ یہ
 المکانُ کسی جگہ اقامت کرنا۔ رہنا۔
 عَنْتٌ دور ہونا۔ کہتے ہیں "رَاقٌ
 یَفْعَلُ کَذَا" وہ ایسا کرتا رہا۔ اس
 کا عمل "کان" جیسا ہوتا ہے۔ د۔
 رَیْمًا و رِیْمَانًا الجَرَحُ زخم کا
 بھرا ہوا منہل ہونا۔
 رَیْمٌ۔ یہ۔ چھوڑ دیا جانا۔
 رَیْمٌ۔ تَرِیْمًا۔ یا لَمَکَانِ۔ اقامت
 کرنا۔ عَلٰی کَذَا۔ بڑھ جانا۔
 السَّحَابَةُ۔ بادل کا ہمیشہ چھایا رہنا۔
 الرِّیْحُ۔ م۔ فضل و زیادتی۔ ہسٹری،
 قبر۔ قبر کا درمیان۔ دن کا آخری حصہ
 تاریکی پیدا ہونے تک۔ وقت کا لمبا
 عرصہ۔ سیڑھی کا درجہ د۔ و الرِّیْمُ
 خالص سفید ہرنی۔
 رَانَ یَرِیْنُ رَیْنًا و رِیُونًا۔ الشیءُ
 فَکَلْنَا و عَلَیْہِ وِیْلٌ۔ غالب آنا۔



<p>کہتے ہیں "رَانَ هَوَاكُ عَلَى قَلْبِهِ" اس کی خواہش اس کے دل پر چھا گئی۔ غالب آگئی۔" جی کا بگڑنا۔ مثلاً۔ رَانَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَيَدِهِ۔ موت کا آجانا۔ رَيْنَ۔ بہہ۔ ایسی سخت مشکل میں پڑنا، کہ چھٹکارے کی شکل نظر نہ آئے، مرنا غم میں پڑنا۔ أَرَانَهُ إِرَانَةً۔ القَوْمُ۔ قوم کا ہلاک شدہ</p>	<p>موشی والی ہونا۔ صفت (مُورِيُونُ) الْوَانُ۔ موزہ نما جوتہ۔ الرَّيْنُ۔ میل پچیل۔ زنگار۔ الرَّيْنَةُ۔ شراب۔ رَاةٌ۔ يَرِيهِهِ۔ رَيْهَاهَا۔ الرَّجُلُ۔ آمدورفت کرنا۔ رَيْتَهُ تَرِيهَاهَا۔ الرَّجُلُ۔ آمدورفت کرنا۔ تَرِيَتَهُ۔ السَّرَابُ۔ سراب کا کبھی چمکنا کبھی بجھنا۔</p>	<p>أَرَيْتُ إِرْيَاءً۔ الرَّايَةُ۔ جھنڈا۔ رَيْتِي۔ الرَّايَةُ۔ جھنڈا بنانا۔ الرَّايَةُ۔ جھنڈا۔ علم۔ اس کی کنیت اُمُّ الْحَرْبِ ہے۔ یہ لو اسے بڑا ہوتا ہے۔ ج۔ الرَّيُّ۔ ملک فارس میں ایک شہر ہے نسبت کے لیے د الرَّيُّ۔ خوش منظر خوش شکل۔ عَيْنُ رَيْتَةٍ۔ بہت پانی والا چشمہ۔</p>
--	--	---

ش

<p>زَابَ دَف، زَابًا۔ ٹگڈ کا کے پینا۔ الدَّهْرُ بِهِ۔ زمانہ کا پھرنا۔ الثَّنَا۔ الْمَنَاسِيكَةُ۔ موشی کو مانگنا۔ يَحْمِلُهُ بوجھ کھینچنا۔ (۔) وَأَزْدَابُ إِزْدِيَابًا، الْقِرْبَةِ۔ پانی کی مشک کو دوڑ کر لے آنا۔ زَابِرٌ۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے کا روئیں دار ہونا۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے کا روواں نکالنا۔ الزُّبُرُ وَالزُّوْبُرُ وَالزُّوْبُرُ۔ کپڑے کا روواں۔ کہتے ہیں۔ "ذَهَبَتْ الْأَيَّامُ بِخَضَارَتِهِ وَنَفَضَتْ يَذُبُّكَ" زمانہ اس کی رونق لے اڑا اور اس کے روئیں کو جھاڑ دیا۔ یعنی اس کا زمانہ پرانا ہو گیا۔ زَابِقٌ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز پر پارہ کی قلعی کرنا۔ الزَّبَقُ وَالزَّبَقُ۔ پارہ۔ زَاجَرُ دَف، زَاجًا۔ بَيْتَهُمْ۔ پھوٹ ڈالنا۔ ایک دوسرے کے برخلاف اکسانا۔ زَادَهُ دَف، زَادًا۔ وَزُودًا وَزُودًا۔</p>	<p>ڈرانا۔ گھبرانا۔ الزُّوْدُ وَالزُّوْدُ۔ گھبراہٹ۔ كَيْلَهُ مَزُودَةً۔ ڈراؤنی رات۔ زَارِدُ دَف، وَزِيدُ دَف، زَيْدًا وَزَادًا وَتَزَادًا۔ وَاسْمُ آدِ إِذَا رَأَوْا تَزَادًا۔ الْأَسَدُ۔ شیر کا دھارنا۔ صفت (زَيْدٌ وَ زَايِرٌ وَزَيْدٌ) الْفُحْلُ۔ سامٹ کا آواز کو گڑ گڑانا۔ الزَّادَةُ۔ جنگل، جھاڑی، باغ، ایک بار کی دھار۔ مِنَ الْإِيلِ وَالْقَنَمِ۔ اونٹوں اور بکریوں کا گنجان ریوڑ۔ زَارَزَا۔ سرور دم اٹھائے ہوئے جلدی چلنا۔ هُ خُوفٌ دَلَانَا۔ الشَّيْءُ حُرکت دینا۔ تَزَادُ زَادًا۔ ڈر کر چھپ جانا، پہلوؤں کی ہلاتے ہوئے چلنا۔ مِنْهُ دُرُكَ عَاجِزِي کرنا۔ الشَّيْءُ۔ حُرکت کرنا۔ ادھر ادھر ہلنا۔ زَاقَهُ دَف، زَاقًا۔ جلدی کرنا۔ أَزَاقُ۔ إِزَاقًا۔ عَلَيْهِ۔ آدھ مرے کو بالکل مار ڈالنا۔</p>	<p>الزُّوْفُ۔ جلدی کرنا۔ مَوْتُ زُوْفٌ۔ جلدی کی موت۔ زَعَمَ دَف، زَعَاكَ نَا۔ مُشْكٌ كَرَحِنَا۔ تَزَاعَكَ تَزَاعًا۔ مِنْهُ۔ شَرَانَا۔ زَعَمَ دَف، زَعَمًا وَزَعَمًا۔ جلدی مرجانا۔ خوب ڈٹ کے کھانا۔ گ۔ گھبرانا۔ ڈرانا۔ هُ الْبَرْدُ۔ سردی کا کسی کو کپکپا دینا۔ لِي كَلِمَةً۔ ایسی بات منہ سے نکالنا جس کے حق و باطل کا پتہ نہ ہو۔ کہتے ہیں "مَا زَعَمَ وَيُخَوِّفُ" اس نے ایک حرف منہ سے نہیں نکالا۔ زَعَمَ زَعَمًا وَزَعَمَ دَف، زَعَمًا وَ إِزَعَمًا۔ بہت گھبرانا۔ زَعَمَ يَفْلَانِ چلانا۔ آواز دینا۔ زَعَمَ تَزَعَمًا۔ گھبراہٹ میں ڈالنا۔ أَزَعَمَ۔ عَلَى الْأَمْرِ۔ کسی کو کسی امر پر مجبور کرنا۔ الْجَوْحُ۔ زخم اچھا ہونے تک علاج کرنا۔ الْمَوْتُ الزُّوْفُ۔ المَنَاكُ موت۔ جلدی کی موت الزُّوْمُ۔ آنکھ، حسب کہتے ہیں "طَعَنُوا</p>
---	--	--

فِي زَيْبِهِ: لوگوں نے اس کے حسب میں عیب نکالے۔

الزَّيْبُ: بہت خوفزدہ۔

الزَّامَةُ: حاجت۔ بہت کھانا یا پینا۔

ہوا۔ کرخت آواز۔ کلمہ۔ "مَا

يُحْصِيهِ زَّامَةٌ" یعنی وہ اس کی

ایک بات میں بھی مخالفت نہیں کرتے۔

الزَّامَةُ مِنَ الطَّعَامِ: کھانے کا

بقدر کفایت ذخیرہ۔

الزُّوَانُ: گیموں سے مشابہ ایک دانہ جو

گیموں میں پیدا ہوتا ہے، اور خواب اور

ہے۔ واحد (زُّوَانَةٌ)

كَأَنِّي رَأَيْتُ زَيْبًا مُكْبِرًا: زیادہ شکم پری

کالمی کو حرکت پر قادر نہ رکھنا۔

زَيْبٌ (دُنْ) زَيْبًا: کانوں اور چہرہ پر زیادہ

بالوں والا ہونا۔ الشَّمْسُ: سورج

کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔

زَيْبٌ (دُنْ) زَيْبًا: القَوْبَةُ: مشک بھرنا۔

— الحَمْلُ: بوجھ اٹھانا۔

زَيْبٌ (دُنْ) الشَّمْسُ: سورج کا ڈوبنے

کے قریب ہونا۔ العَنْبُ: انگور کو

خشک کر کے زیب بنانا۔ الرَّجُلُ

زیادہ بولنے سے منہ سے جھاگ آنا۔

کہتے ہیں "يُكَلِّمُ فَلَانٌ حَتَّى زَيْبٍ

فَمَلَّةٌ"

أَزْبَ أَزْبَابًا: العَنْبُ: انگور کو

سکھانا۔ الشَّمْسُ: سورج کا

غروب ہونے کے لیے جھکانا۔

تَزَيَّبَ: العَنْبُ: انگور کا زیب بننا۔

خشک ہونا۔ الرَّجُلُ: کسی کا غصہ

سے بھر جانا۔ فِي الْكَلَامِ: زیادہ

بولنے سے باچھ سے جھاگ نکلنا۔

إِذْ دَبَّتْ إِذْ دَبَابًا: القَوْبَةُ: مشک

کا بھرنا۔

الزَّيْبُ: بالوں کی زیادتی اور لمبائی۔

الزَّيْبَانَةُ: ایک قسم کا بہرا چوہا جو چوری

میں ضرب المثل ہے۔ کہتے ہیں "أَسْرَقْتُ

مِنْ زَيْبَانَةٍ"

الزَّيْبِيُّ: خشک انگور یا سوکھی انجیر۔

اس کے نیچے والے کو "زَيْبَابٌ" کہتے

ہیں۔ سانپ کے منہ کا زہر۔

الزَّيْبِيَّةُ: زیب کا واحد ہاتھ کی پھنسی۔

منہ کے جھاگ۔ سانپ کی آنکھوں کے

اوپر کے دو سیاہ نقطے، اسی لیے

سانپ کو "ذَاتُ الزَّيْبِيَّتَيْنِ"

کہتے ہیں۔

الْأَزْبُ: کانوں اور چہرہ پر بہت بالوں والا

مؤنث۔ زَيْبَاءُ: "عَامُّ أَرْبُ"

زیادہ پیداوار کا سال مثل ہے "كُلُّ

أَرْبَ تَقْوَمُ" یعنی وہ اونٹ جس کے

پہرے پر بہت بال ہوتے ہیں چمکیل ہوتا

ہے۔ "كَرَاهِيَّةٌ زَيْبَاءُ: بڑی مصیبت

الزَّيْبِيَّةُ: کش مش نیچنے والا، کشمش۔

خشک انگور کی شراب۔

الْمُزْبُ وَالْمُزْبَبُ: بہت مال والا۔

زَيْبٌ (دُنْ) زَيْبًا: مکھن کھلانا۔

السِّقَاءُ: مشک کے دودھ کو بھونکر

مکھن نکالنا۔

زَيْبٌ (دُنْ) زَيْبًا: السَّوْبِقُ: سٹو

میں مکھن ملانا۔ لَحْمٌ: کسی کو مکھن

دینا۔ زَيْبٌ: اللَّبَنُ: دودھ

کا مکھن لانا۔ شَدَقَةٌ: باچھ کا

جھاگ نکالنا۔ الْقُطْنُ: روئی کو

دھن کرکتنے کے قابل بنانا۔

أَزْبَدَ: اللَّحْمُ: أَوْ الْقُدْرُ: أَوْ الْفَحْ:

سمندر یا ہانڈی یا منہ کا جھاگ لانا۔

نکالنا۔ کہتے ہیں "أَرَعَى الرَّجُلُ

وَأَزْبَدَ" یعنی اس کا غصہ بھڑک پڑا۔

اور اس نے سخت دھمکی دی۔ الشَّيْءُ:

کسی چیز کا بہت مفید ہونا۔ بیری وغیرہ

کا شکوفہ نکالنا۔

تَزَيَّبَ: الشَّدَقُ: باچھ کا جھاگ

نکالنا۔ السَّجْلُ: کسی کا غیظ و

غضب میں آنا۔ اور دھمکی دینا۔

الزَّيْبَةُ: مکھن لینا۔ الشَّيْءُ:

چیز کا خلاصہ لینا۔ نِگْلَانَا: الِيجْمَانُ:

قسم کھانے میں جلدی کرنا۔

الزَّيْبَةُ وَالزَّيْبُ: مکھن۔ ج۔ زَيْبٌ:

زَيْبَةُ الشَّيْءِ: چیز کا بہترین حصہ۔

کہتے ہیں "اِخْتَلَطَ زَيْبُهُ بِخَاثِرِهِ"

یہ ضرب المثل اس وقت بولتے ہیں،

جب اپنے معاملہ میں حیران ہو جائے۔

الزَّيْبُ: داود و بَش۔

الزَّيْبُ: ج۔ أَرْيَادُ الزَّيْبَةِ: ج

زَيْبٌ: پانی کا جھاگ۔ دھاتوں کا

میل مثل ہے "صَوَّرَ الْمُحَضُّ الزَّيْبُ:"

یہ مثل اس وقت بولی جاتی ہے کہ ٹپنی

خبر کے بعد سچ بات ظاہر ہو جائے۔

الزَّيْبَادُ: ایک ہلی کے مانند جانور سے حاصل

کروہ خوشبو۔

الزَّيْبَادُ: ایک قسم کا پودہ ہے۔

زَيْبَادُ اللَّبَنِ: غیر مفید چیز مثل مشورہ ہے

"اِخْتَلَطَ الْخَاثِرُ بِالزَّيْبَادِ" یعنی

اچھی چیز بدی چیز سے مل گئی۔

الزَّيْبِيَّةُ: مٹی کا پیالہ۔ ج۔ زَيْبَادِيٌّ:

الْمُزْبَبُ: مکھن نکالنے کا آلہ۔ ج۔

مُزَايِدٌ:

الْمُزْبِدُ: قَا: جھاگ پھینکنے والا۔

بَحْرٌ مُزْبِدٌ: مثلاً طم سمندر جو

جھاگ مارے۔

الْمُزْدَبِدُ: مکھن والا۔

زَبَدٌ (دُنْ) زَبَدًا: عَنِ الْأَمْرِ:

کام سے روکنا۔ منع کرنا۔ السَّائِلُ:

سائل کو جھپکنا۔ الرَّجُلُ: کسی کے



پتھر ارنا۔ البناء۔ عمارت پر
عمارت اٹھانا۔ البئر۔ کنویں کو
پتھروں سے بنانا۔ علیہ صبر کرنا
(و) وَزَبْرًا وَزَبْرًا الْكِتَابُ
کتاب لکھنا۔

زَبْرَدَن، زَبَاسَہ۔ بڑے جسم والا ہونا
صفت (زَبِیُّ) اَزْبَد۔ السَّجُلُ
آدمی کا بہادر ہونا۔ بڑے جسم والا ہونا
— الْکَبْشُ یُوَلِّکُنَا۔

اِزْبَارًا اِزْبَارًا۔ الْکَلْبُ۔ کتے کا
اپنے بال کھڑے کرنا۔ الشَّعْرُ
بال کھڑے ہونا۔ الرَّجُلُ کسی
کا شر و قساوے کے لیے تیار ہونا۔
النَّیَاتُ اَوِ الْوَبْرُ۔ نبات یا اونٹ
کے بالوں کا اگنا۔

الزَّبْرُ۔ عقل۔ قوی، مضبوط۔ پتھر
تحریر، کلام۔

الزَّبْرُ۔ کتاب۔ ج۔ زَبْرُوس۔ عقل
کہتے ہیں: "مَا لَکَ زَبْرٌ"

الزَّبْرُ۔ بہت قوی،
الزَّبْرَةُ۔ بوسے کا بڑا ٹکڑا۔ کاندھا اور

پیٹھ۔ شیر کی ایال۔ اہرن۔ ج۔
زَبْرٌ وَزَبْرٌ۔

الزَّبْرُوس۔ غر شنتہ۔ گروہ، کتاب۔ ج۔
زَبْرٌ۔ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ

السلام پر نازل شدہ کتاب۔
الزَّبْرُوس۔ مکتوب مضبوط آدمی، معصیت۔

طریف، ہوشیار آدمی، کیچڑ۔
الزَّبْرُ۔ بڑے چوڑے کندھوں والا۔ ایذا

رسانی، مؤنت۔ زَبْرًا۔ ج۔
زَبْرٌ۔

الزَّبْرَةُ۔ زَبْر کا مصدر، تحریر، کتابت
الْمَزْبُور۔ قلم۔

أَرْضٌ مَزْبُورَةٌ۔ بہت جڑوں والی زمین۔
زَبْدَج۔ الشیء۔ چیز کو خوبصورت بنانا

آراستہ و پیراستہ کرنا۔

الزَّبْرُج۔ گلکاری و مینا کاری کی زینت۔
ہر خوبصورت چیز۔ سونا، سرخ۔ پتلا

بادل۔ ج۔ زَبَارِجُ
الزَّبْرَجِدُ۔ ایک قیمتی پتھر جو نمر کے مشابہ

ہوتا ہے۔ زیادہ مشہور سبز رنگ کا
ہوتا ہے۔ ج۔ زَبَارِجُ۔

زَبْرَق۔ الثوب۔ کپڑے کو سرخ یا زرد
رنگ میں رنگنا۔

زَبْزَب۔ غضبناک ہونا۔ لڑائی میں
شکست کھانا۔

الزَّبْزَبُ۔ بلی نما ایک جانور۔ ایک قسم کی
کشتی۔ ج۔ زَبَارِبُ۔

زَبَطَ (ض) زَبَطًا وَزَبِطًا۔ الْبَطُّ۔
بطخ کا جلانا۔

الزَّبَاطِلَةُ وَالزَّبَاطَةُ۔ بطخ۔
تَنْزَبَحُ۔ بدلتا ہونا۔ غصے والا ہونا۔

الزَّبِیْعُ۔ غصہ ورجحہ والا۔
الزَّبِیْعُ۔ خفیہ پست قدم۔

الزَّبِیْعَةُ۔ بیکر۔ اس کو اُمُّ زَبِیْعَةٍ
وَابُو زَبِیْعَةٍ بھی کہتے ہیں۔ ج۔

زَوَابِعُ۔ الزَوَابِعُ۔ مصیبتیں۔
الزَّبِیَاعَةُ۔ بونی یا موزے کا کنارہ۔

زَبْعَدُ۔ ایک خوشبودار درخت۔
الزَّبَعْدِیُّ۔ بدخو۔ موٹا۔ چہرے اور ابرو پر

زیادہ بالوں والا۔ مادہ مگر مچھ۔
زَبَقَ (ف) زَبَقًا۔ شَعْرًا۔ بال

اکھڑنا۔ کُلِّی السَّجَنُ۔ قید کرنا۔
تنگی میں ڈالنا۔ کُلِّی الشَّیْءِ۔

داخل کرنا۔ الشَّیْءُ بِالشَّیْءِ۔
ٹالنا۔ خلط وسط کرنا۔ الْقُفْلُ

تالا کھولنا۔ الْمَرْأَةُ بَوْلَدِهَا
پھینک دینا۔ اِنْزَبَقَ۔ فی الْبَیْتِ۔ گھر میں جانا۔

فی الْحَبَالَةِ۔ جال میں پھنسنا۔

بھیننا۔
الزَّبُوقَةُ۔ مِنَ الْبَیْتِ۔ گھر کا گوشہ۔

کونا۔
الْأَسْبَقُ۔ وہ احمق جو اپنی بے وقوفی سے

اپنی داڑھی کے بال نوچا کرے۔
الْمَزْبُوقَةُ۔ الزَّبِیْقَةُ۔ نوچی ہوئی

داڑھی۔
زَبَلْ (ض) زَبَلًا وَزَبَلًا۔ الارض۔

زمین میں کھاؤ ڈالنا۔ (و) وَارْدَبَلْ
الشیء۔ اٹھانا۔

الزَّابِلُ وَالزَّابِلُ۔ پست قدم۔
الزَّبَالُ وَالزَّبَالُ۔ وہ چیز جس کو چھوٹی

اپنے منہ میں اٹھائے۔ کہتے ہیں: "مَا
أَصَابَ مِنْهُ زَبَالًا"۔ اس نے

اس سے کچھ نہیں پایا۔
الزَّبِلُ۔ کھاؤ۔ گوبر۔ لید۔

الزَّبْلَةُ۔ لقمہ۔ الزَّبَالَةُ۔ تھوڑا پانی۔
مَا فِی الْبَیْرِ زَبَالَةٌ۔ کنویں میں

تھوڑا پانی نہیں ہے۔
الزَّبِيلُ۔ ج۔ زَبِيلٌ وَزَبْلَانٌ۔ دو

الزَّبِيلُ (ج۔ زَبَابِيلُ) (و) الزَّبِيلُ
و) الزَّبِيلُ (ج۔ زَبَابِيلُ)۔

ٹوکرا، برتن، توشہ دان۔
الْمَزْبِلَةُ وَالْمَزْبِلَةُ۔ کوڑا کرکٹ

جمع ہونے کی جگہ۔ ج۔ مَزَابِلُ۔
زَبْنَتُ (ض) زَبْنًا۔ ہٹانا، ٹکڑا کرنا۔ ایک

طرف کرنا۔ کہتے ہیں: "زَبْنًا عَنَّا
مَعْرُوفًا"۔ اس نے اپنی بھلائی ہم

سے روک لی۔ زَبْنًا الشَّیْءُ۔ بھل
کو درخت پر فروخت کر دینا۔

أَزْبَنَ۔ بَیْنَتُهُ عَنِ الطَّرِيقِ۔ راستہ
سے ایک طرف مکان بنانا۔

زَابَنَتُهُ مَذَابَنَتُهُ۔ ایک دوسرے کو ہٹانا
دھکیلنا۔

اِنْزَبْنَ - القوم - ایک طرف ہٹنا۔ کتنا
پر ہونا۔

تَزَنَّتْ - غالب آنا۔

الزَّيْنُ - بَيْتُ سَبِيْن - گھروں سے ایک
جانب بٹا ہوا گھر - مَقَامُ
مَذْبَن - تنگ مقام جہاں انسان کھڑا
نہ ہو سکے۔

الزَّيْن - گوشہ - کنارہ

زُبْنَتَا - الناقِطَةُ - اونٹنی کی دونوں
ٹانگیں۔

الزُّبَيْنَةُ - سخت، سرکش انسان یا جن۔
سپاہی - جہ - زُبَايْنَةُ -

الزُّبَايْنَةُ - سپاہی۔ وہ فرشتے جو دوزخیوں
کو دوزخ کی طرف دھکیلیں گے۔

الزُّبُونُ - مِنَ التَّوْقِي - دوپتے وقت
بہت زانو پھٹکانے والی اونٹنی۔

حَرْبُ زُبُون - سنگین جنگ۔
الزُّبُونُ - کند ذہن۔ بیوقوف۔

الزُّبُونَةُ وَالزُّبُونَةُ - گردن۔
زُبَاكِي - الْعَقْدَب - بچھو کا ڈنک

جہ - زُبَايَا - الْعَقْدَب - بچھو کے سینک۔
الْمَزَابَنَةُ - اُٹکل واندازہ کی

زَبِي (رض) زَبِيَا وَزَبِي - اٹھالے جانا۔
ہانکنا - زَبَاةُ بَشَر - کسی پر برائی

کا الزام لگانا۔ تھمت لگانا۔
آزبَاہ - اَزْبَاء - اٹھانا۔ زَبِي فَلَانَا -

ہانکنا - اللَّحْم - شکار کے گڑھے
میں گوشت بکھیرنا۔

زَبِي وَتَزَبِي - الزُّبِيَةُ - شکار کے لیے
گڑھے میں چھپنا۔ مالے بیٹھنا۔

الزُّبِيَةُ - درندوں کے شکار کے لیے گڑھا
روٹی پکانے یا گوشت بھوننے کا گڑھا۔

وہ پشتہ جس پر پانی نہ چڑھے۔ جہ۔
زَبِي کہتے ہیں "بَلْعُ السَّيْلِ"

الزُّبِي - معاملہ سنگین ہو گیا۔
الزُّبِي - سرعت، نشاط۔ ایک قسم کی

چال۔ برائی بڑا معاملہ۔ جہ۔ آذَابِي
زَبِي (رن) زَبِيَا - دوڑنا - کسی کو

نیزے کے پچھلے سرے کے لوہے سے
مارنا۔ زَبِيَا بِالرُّمُوحِ - نیزہ مارنا۔

بالشئ - کوئی چیز پھینکنا۔
زَبِي (رض) زَبِيَا وَزَبِيَا - حَاجِبَةُ

ابرو کا دروازہ اور باریک ہونا۔ صفت
(آزَبِي) مَوْنَت زَبَاة - جہ۔

زَبِي - الْحَاجِب - ابرو کو دروازہ اور
باریک کرنا۔ الْمَوْصَع - کسی جگہ

کو درست کرنا۔ ہموار کرنا۔
آزَبِي - الرُّمُوح - نیزے کے پچھلے سرے

پر لوہا لگانا۔ نیزے کے پچھلے سرے
سے لوہا نکالنا۔

الزُّبِي - نیزے کے پچھلے سرے کا لوہا۔
مثلاً ہے "جَعَلَ الزُّبِي قَدَامَ

السَّيْنَانِ" یعنی اس نے ادنیٰ کو اعلیٰ
پر فضیلت دی۔ کمنی کا سرا۔ تیر

کا پھل۔ جہ۔ زَبَاةُ وَزَبِيَا
وَزَبِيَا -

الزَّبَاةُ وَالزَّبَاةُ وَالزَّبَاةُ - شیشہ
(زَبَاةُ) شیشہ کا ٹکڑا شیشہ

کا برتن۔
الزَّبَاةُ - شیشہ بیچنے والا - و د

الزَّبَاةُ - شیشہ بنانے والا۔
الزَّبَاةُ - شیشہ گری کا پیشہ۔

الزَّبَاةُ - پھل لگے ہوئے چھوٹے نیزے
سیدھے ہوئے گدھے۔

الْمَزَبِي - چھوٹا نیزہ۔ برہمچی۔
تَجَر (رن) زَبِيَا - عَنْ كَدَا - منع

کرنا۔ روکنا۔ ڈانٹنا۔ چلا کر بہکانا۔
دھتکارنا - الرِّيحُ السَّحَاب -

ہوا کا بادل کو اٹھا کر لانا۔ الْكَلْبُ
وَالْكَلْب - کتے کو ڈانٹنا۔ دھتکارنا

الطَّيْر - پرندہ کو فال شگون
لینے کے لیے اڑانا۔ اگر پرندہ سیدھی

جانب اڑتا تو اس کو نیک فال جانتے۔
اور اگر الٹی جانب پرواز کرتا تو اس کو

بدشگون خیال کرتے۔ زَجَر -
الرَّجُلُ بکانت کرنا۔

الرَّجُلُ - منع کرنا۔ روکنا۔ چلا کر بہکانا
دینا۔ (وَالزَّجَر -) رک جانا۔

تَزَاوَر - الْقَوْمُ عَنِ الشَّر - ایک
دوسرے کو برائی سے روکنا

الزَّجَر - مصدر - (وَالزَّجَر) ایک
بڑے جسم کی مچھلی۔ جہ۔ زَجْوَر -

الزَّجْوَر - خا - زَجْوَرُ الْإِنْسَان - ضمیر۔
أَبْوَرِاجِر - کتے کی کنیت۔

الزَّجَّاس - بہت ڈانٹنے والا۔ نَاقِلَةُ
زَجْوَر - بغیر ڈانٹے ہوئے دودھ

نہ دینے والی اونٹنی۔
الْمَزَجَر - ڈانٹنے کی جگہ۔

الْمَزَجَرَةُ - جس چیز سے ڈانٹا اور بھگایا
جائے۔ کہا جاتا ہے "ذَكَرُ اللَّهِ

مَزَجَرَةُ لِلشَّيْطَانِ" یعنی اللہ کا
ذکر شیطان کو بھگانے والا ہے۔

زَجَل (رن) زَجَلَا - کُ وِیہ - تیر مارنا۔
بٹانا - بِالرُّمُوحِ - نیزہ مارنا -

الْحَمَام - گھوڑے کو دور کے لیے روانہ
کرنا۔ حَمَامُ الزَّجَالِ وَالزَّجَال -

پیغام رساں گھوڑے۔
زَجَل (رس) زَجَلَا - خوش ہونا۔ گانا۔

شور و غوغا کرنا۔ صفت زَجَل و
زَا جِل، الْقَوْم - کھیل کود

کرنا۔
الزَّجَل - شرک ایک قسم - سَحَابُ
ذُو زَجَل - گرجنے والا بادل۔



الزَّجَلَةُ - لوگوں کا شور و غل - ج۔
زَجَلَاتٌ

الزَّجَلَةُ - لوگوں کی جماعت - ہر چیز کا ٹکڑا - دونوں آنکھوں کے درمیان کی کھال - ج۔ زَجَلٌ - مَسَافَةٌ زَجُولٌ - بی مسافت -

الزَّاجِلُ وَالزَّاجِلُ - کسی کے سرے پر باندھنے کا لکڑی کا حلقہ - نیزے کے نچلے حصہ کے لیے کا حلقہ - فوج کا سردار - ج۔ زَوَاجِلُ -

الزَّجَالَةُ - چھوٹے نیزے سے مارنے والے لوگ -

الْمَزْجَلُ وَالْمَزْجَالُ - چھوٹا نیزہ - بریگیٹ -

الْمَزْجَلُ - کبوتروں کی روانگی کی جگہ - زَجَبٌ (ن) زَجَبًا - کانا پھوسی کرنا -

خفیہ بات سنانا کہتے ہیں سَكَنَ فَمَا زَجَمَ بِحَرْفٍ - وہ چپ رہا - اور ایک حرف نہیں بولا -

الزَّجْمُ - ایک قسم کا پرندہ - الزَّجْمَةُ وَالزَّجْمَةُ - آہستہ بات -

زَجَانٌ (ن) زَجَوًا وَزَجِيٌّ - تَزْجِيَّةٌ وَزَجِيٌّ زَجَاءٌ وَزَجِيٌّ -

کے ہیں - کَيْفَ تَزْجِي آيَا مَلِكٍ - تم اپنا زمانہ کیسے گزارتے ہو -

”رَجِيٌّ فَلَانٌ حَاجَتِي“ - فلاں نے حاجت روائی میں مجھ کو سہولت پہنچائی - اَرْجِي الْأَمْرَ - کسی امر کا موخر کرنا - اَرْجِي الْبَدَايَةَ -

دراہم کو رواج دینا - زَجَانٌ (ن) زَجَوًا وَزَجَوًا وَزَجَاءٌ -

— الْأَمْرُ - کامیاب ہونا - آسان ہونا - الْخِرَاجُ - خراج کا

لبسولت جمع ہونا - فَلَانٌ - بنسی کا بند ہونا -

تَزْجِيٌّ تَزْجِيًّا - یہ - اکتفا کرنا - قناعت کرنا -

الْمُزْجِيٌّ مَقْطُوعٌ يَارْدِي حَمِيرَ مُؤْنَتِ مُزْجَاةٌ -

الْأَسْبَاجِي - اسم تفضیل - کہتے ہیں - ”فُلَانٌ أَرْجِي مِنْ فُلَانٍ بِهَذَا الْأَمْرِ“ - یعنی وہ فلاں سے زیادہ

نافذ کرنے والا ہے - الْمُزْجِيٌّ - کمزور -

زَجَلٌ (ن) زَجًا - جلدی سے بٹانا یا کھینچنا - عَنْ مَكَانِهِ - جگہ سے علیحدہ کرنا - ایک طرف کرنا -

زَحَبٌ (ن) زَحَبًا - إِلَيْهِ - قریب ہونا -

زَحَرَ (ف) زَحِيرًا وَزَحَارًا وَزَحَارَةً - پیچش کی شکایت ہونا - تکلیف یا درد سے آہ بھرنا -

زَحَرْتُ بِهِ أُمُتًا اس کی ماں نے اس کو جنا - زَحَوًا بِالرُّمَحِ

نیزہ مارنا - زَحِيرٌ - پیچش میں مبتلا ہونا -

زَحَوَةً - دشمنی کرنا - الزَّحَارُ وَالزَّحِيرُ - پیچش -

الزُّحُودُ وَالزُّحَارُ وَالزُّحْرَانُ - بخیل زَحْوَحَهُ - عَنْ مَكَانِهِ - دور کرنا -

بٹانا - تَزْخَرُحٌ - دور ہونا - بٹنا -

الزَّخْرَحُ - دوری - کہتے ہیں - ”هُوَ بِزَخْرَحٍ مِنْهُ“ - یعنی وہ اس سے دور ہے -

الزَّخْرَاحُ - دور - زَحَفَ (ن) زَحَفًا وَزَحَفَانًا وَزَحُوفًا - گھٹنوں یا سرین کے بل

دھیرے دھیرے گھٹنا - اَلزَّحَفُ - چلنا - کہتے ہیں - زَحَفَ الْعَسْكَرُ إِلَى الْعَدُوِّ - لشکر دشمن کی طرف

بسبب کثرت دھیرے دھیرے بڑھا - الشَّيْءُ كَسَى شَيْءًا كَوْنَهُ مِنْهُ -

کھینچنا - الْبَعِيرُ - اونٹ کا ٹھکانا - صفت مذکر (زَايِفٌ وَزَايِفَةٌ) - تا مبالغہ کے لیے -

صفت مؤنث (زَايِفَةٌ) - ج زَوَاحِفٌ وَزَحُوفٌ - ج - زَحَفٌ - السَّهْمُ تِيرَ كَانْشَانَهُ كَ -

دورے کرنا اور پھرا چڑھ کر نشانہ پر لگنا - صفت (زَايِفٌ) - ج - زَوَاحِفٌ -

اَزْحَفَ - اُنْتَهَى مَقْصِدُكَ يَنْحِنَا - هُ طُولُ السَّفَرِ - سفر کی درازی

کا کسی کو تھکا دینا - الْبَعِيرُ - اونٹ کا ٹھکانا - الرَّجُلُ تَهَكَ - ہوئے اونٹ یا گھوڑے والا ہونا -

اَزْحَفَ بَنُو فُلَانٍ - بڑا لشکر بننا -

زَايِفًا هُمُ - ایک دوسرے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا -

تَزْخَفَ وَآزَحَفَ - إِلَيْهِ - چلنا - تَزَايَفَ - الْقَوْمُ فِي الْحَرْبِ - لڑائی میں ایک دوسرے کی طرف

بڑھنا - قریب ہونا - الزَّحْفُ - دشمن کی طرف بڑھنے والا

لشکر جبار - ج - زَحُوفٌ - الزَّحْفَةُ قُرْبٌ قَرِيبٌ تَكَ سَفَرُ كَرْنِ

والا - دور نہ جانے والا - الزَّحَافُ - علم عروض کے سبب خفیف یا

سبب ثقیل کے تغیر کا نام - الزَّحَافُ - بہت کوچ کرنے والا - مؤنث زَحَافَةٌ -

www.waseemziyai.com

زمین پر چلنے والی ہڈی۔ وَالزَّحَّانَاتُ
مِنَ الْحَيَوَانَ۔ زمین پر رہنے والے

جانور
الْمَزْحَفُ۔ گھٹنے کی جگہ۔ مَزَاحِفُ
السَّحَابِ۔ بادل کا قطرہ گرنے کی
جگہ۔ بَعِيرٌ مَزْحَافٌ۔ ٹھلنے کا
عاوی اونٹ۔ جہ۔ مَزَاحِفٌ و
مَزَاحِيفٌ۔

زَحَكٌ (ف) زَحَكًا۔ بالمکان۔
اقامت کرنا۔ مَنَازِقٌ قریب ہونا
— عَنْهُ دور ہونا۔ الْبَعِيرُ
اونٹ کا ٹھلنا۔
أَزْحَكَ۔ الْمَرْبُوطُ۔ ٹھکی ہوئی سواری
والا ہونا۔

زَاَحَكُهُ۔ عَنْ نَفْسِهِ۔ دور کرنا۔
تَزَاَحَكَ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے سے
دور ہونا۔ نزدیک ہونا (ضد)
زَحَلَ (ف) زُحُولًا۔ عَنْ مَكَانِهِ۔
دور ہونا۔ کنارہ کش ہونا۔ صفت

زَاَحِلٌ وَزُحْلٌ
زَحَلَ (ف) زُحْلًا۔ ٹھلنا۔
أَزْحَلَهُ۔ إِلَيْهِ۔ مجبور کرنا۔
أَزْحَلَهُ وَزَحَلَهُ۔ دور کرنا۔
تَزَحَّلَ۔ عَنْ مَكَانِهِ۔ ایک طرف
ہونا۔ دور ہونا۔

زُحْلٌ۔ ایک ستارہ کا نام ہے جو ہندی
و دوری میں منرب المثل ہے۔
الزُّحَلَةُ۔ کاموں سے کنارہ کش آدمی۔
قریب قریب تک سفر کرنے والا۔
اپنے سوراخ میں دم کی طرف سے گھسنے
والا جانور۔ مَسَاقَةُ زُحُولٍ۔ دور
کی مسافت۔

الزُّحْلِيلُ۔ تیز۔ الْكُزْبَةُ۔ تیز
(— وَالزُّحُولُ) تنگ پھلنے
والی جگہ۔ الزُّحُولُ۔ بلکہ پھلنے

جسم والا۔

الْمَزْحَلُ۔ تنہائی کی جگہ۔
زَحَلَتْ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو لٹھکانا۔
کنارہ پر کرنا۔ إِلَّا نَاءً۔ برتن
بھرنے۔ زَحَلَتْ فِي الْكَلَامِ
بولنے میں تیزی کرنا۔

تَزَحَّلَتْ۔ لٹھکانا۔ ایک طرف ہونا۔
تَزَحَّلَتْ الشَّمْسُ۔ سورج کا
ڈوبنے کے لیے جھکنا یا دوسرے کو سر پر
سے ڈھلنا۔

الزُّحْلُوفَةُ۔ پھلنے ڈھلوان جگہ۔ جہ۔
زَحَالِفٌ وَزَحَالِيفٌ۔
الزَّحَالِفُ۔ چوٹی سے مشابہ چھوٹے
چھوٹے کیڑے۔

زَحَلِقٌ وَزَحْلِكٌ۔ پھلنا۔ تَزَحْلَقُ
و تَزَحْلِكُ۔ پھلنا۔ ریگنا۔
زُحْلُوقَةٌ وَزُحْلُوكَةٌ۔ پھلنے کی جگہ
لیے تختے کا جھولا۔ جس کے دونوں
جانب بیڑے کر جھولیں۔

زَحَمَةٌ (ف) زَحَمًا وَزَحَامًا۔ دبانا۔
تنگی کرنا۔ تنگ جگہ میں دھکیلنا۔
بیڑ کرنا۔

زَاَحَمَةٌ تَنَگِي کرنا۔ زَاَحَمَ الْخَمْسِينَ
پچاس کے قریب پہنچنا۔
زُحَمٌ وَزُحَمٌ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے
پر تنگی کرنا۔ ایک دوسرے کو دھکیلنا
— الْأَمْوَاجُ۔ موجوں کا آپس میں
ٹکرائنا۔

الزُّحْمُ۔ بھیڑ کرنے والے لوگ۔
الزُّحْمَةُ۔ بھیڑ۔ تنگی۔
الزُّحَامُ۔ یوم الزُّحَامِ۔ قیامت کا
دن۔

الْمَزْحَمَةُ۔ بہت بھیڑ کرنے والا۔
زُحْمَرٌ۔ الْقُرْبَةُ۔ مشک بھرنے۔
زَحَنَ (ف) سُسْتُ ہونا۔ دیر لگانا۔

— عَنْ الْمَكَانِ۔ کسی جگہ سے
بھٹانا۔ دور کرنا۔

تَزَحَّنَ۔ دیر کرنا۔ سستی کرنا۔ عَنْ
مَكَانِهِ۔ حرکت کرنا۔ عَلَى الشَّيْءِ۔
وَعَنْهُ۔ ناپسندیدگی کے ساتھ کرنا
رَجُلٌ زَحَنٌ۔ پست قد۔ مَوْرَثٌ
رُحْنَةٌ۔

الزُّحْنَةُ۔ سموت گرمی۔ قافلہ مع اپنے
ساز و سامان کے۔ کہتے ہیں: لَهُمُ
رُحْنَةُ مَانٍ کے لیے دیر کا کام ہے
الزُّحْنَةُ۔ وادی کا موڑ۔

زَحَنَ (ن) زَحْنًا۔ غضب ناک ہونا۔
بِالْإِبِلِ۔ اونٹوں کو تیز چلانا۔ ع
دفع کرنا۔ گڑھے میں دھکیلنا۔

زَحَنَ (ض) زَحَا وَزَحِيمًا۔ الْجَمْدُ۔
چنگاری کا تیز چمکنا۔

الزَّخْ۔ کینہ اور غصہ۔ الزَّخَةُ۔ کینہ
غصہ۔ (— وَالْمَزْحَةُ وَالْمَزْحَةُ)
بیوی۔

زَحَرَفَ، زَحَرًا وَزُحُورًا وَتَزَحَّرًا
— الْبَحْرُ۔ دریا کا چڑھنا اور
موجزن ہونا۔ الْوَادِي۔ وادی

کالمی اور پانی سے بھری ہوئی ہونا۔
— الْبَنَاتُ۔ نباتات کا لمبا ہونا
— الْقَوْمُ۔ جنگ یا روانگی جنگ
کے لیے قوم کا جوش میں آنا۔

الْحَرْبُ أَوِ الْقُدْرُ۔ لڑائی یا
ہانڈی کا جوش مارنا۔ ع۔ بھرنے
موٹا کرنا۔ آراستہ کرنا۔ خوش کرنا۔
— بِمَا عِنْدَهُ۔ فخر کرنا۔

زَاَحَرَةً۔ فخر میں دوسرے پر غالب آنا۔
تَزَحَّرَ۔ الْبَحْرُ أَوِ الْوَادِي۔ دریا یا
وادی کا چڑھنا۔ موج مارنا۔

تَزَحُّوسٌ۔ فخر کرنا۔
الزَّاخِرُ (ف) کریم۔ فیاض۔ خوش



بھرا ہوا۔ چھلکنے والا۔ زَوَاخِرُ
الوادی۔ وادی کی گھاس۔
زَخَّارُ۔ زخیر کا اسم مبالغہ۔ نَبَاتٌ
(زَخُورٌ وَ زَخَارِیٌّ وَ زَخُورِیٌّ)
لمبا گنجان پودا۔ کہتے ہیں "قَدْ
أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخَارَیْہَا"
یعنی زمین کی نباتات دیراز و طویل ہو
گئی۔ کلام زَخُورِیٌّ متکبرانہ
تہدید سے بھری ہوئی گفتگو۔
زَخْرَفَہُ۔ خوبصورت بنانا۔ آراستہ و
پیراستہ کرنا۔ الکلام۔ کلام کو
جھوٹ سے آراستہ کرنا۔
تَزَخَّرَفَ۔ الرَّجُلُ۔ مزین ہونا۔
آراستہ ہونا۔
الزُّخْرُفُ۔ سونا۔ چیز کی خوبصورتی۔
زُخْرُفُ الْکَلَامِ۔ جھوٹ سے
سجایا ہوا کلام۔ زُخْرُفُ الْأَرْضِ
زمین کی سبزیوں کے رنگ۔ ج۔
زَخَارِفُ۔ الزَّخَارِفُ کشتیاں
پانی پراٹنے والے کپڑے۔ زَخَارِفُ
الْمَاءِ۔ پانی کے راستے۔
زَخَفَ (ف) زَخْفًا وَ زَخِيفًا۔ متکبر
کرنا۔
زَخَفَ۔ فِي الْقَوْلِ۔ بہت بولنا۔
تَزَخَّفَ۔ مزین ہونا۔ خوبصورت ہونا۔
الْبَزَخَفَ۔ متکبر۔ فخر کرنے والا۔
زَخَمَ (ف) زَخْمًا سبختی سے دھکیلنا۔
زَخَمَ (س) زَخْمًا وَ أَرْخَمَ۔
اللَّحْمُ۔ گوشت کا بدبودار ہونا۔
صفت (زَخْمٌ)
أَزْدَحَمَ۔ الْحَمْلُ۔ بوجھ اٹھانا۔
الزُّخْمَةُ۔ بدبودار سڑا ہوا
گوشت۔
الزُّخْمَاءُ۔ بدبودار عورت
الذذب۔ حصہ۔ ج۔ أَزْدَابٌ۔

زَدَسَ۔ لُٹنا۔ أَزْدَسَ۔ لُٹانا۔
الْأَزْدَرَانِ۔ دونوں شانے۔ جَاءَ
يَخْزِبُ أَزْدَرِيَّةً۔ یعنی وہ
تہی دست آیا۔
أَزْدَسَ مَدَنِيًّا۔
أَزْدَفَ۔ اللَّيْلُ۔ رات کا تاریک
ہونا۔
زَدَانِ (زَدَوَا)۔ الصَّبِيُّ الْجَوْنُ
دبا جھون۔ بچہ کا انخروٹ کو گرٹھے
میں پھینک کر کھیلنا۔
أَزْدَى إِزْدَاءً۔ فائدہ پہنچانا۔
زَرَنَ (زَرَا)۔ الْقَمِيصُ۔ کرتے
میں گھنڈی لگانا۔ الشَّيْءُ جَمْع
کر کے باندھنا۔ الْمَتَاعُ۔ سامان
جھاڑنا۔ الرَّجُلُ بِكَالْنَا دھتکارنا
زَرَّعَ بِالرَّمْحِ۔ نیزہ مارنا۔
الشَّعْرَ۔ بال اکھیرنا۔ نوچنا۔
عَيْشَتُهُ۔ آنکھ تنگ کرنا۔
زَسَّ (س) زَرًّا۔ الرَّجُلُ گھنڈی
لگانا۔ اپنے مخالف پر سختی کرنا۔ عقل
و تجربہ کا بڑھنا۔
زَسَّ (ض) زَسِيرًا۔ بَسَانُ الرَّمْحِ
نیزہ کے پھل کا چکنا۔ الْعَيْنُ
آنکھ کا چکنا۔
أَزَسَّ۔ الْقَمِيصُ۔ قمیض میں بٹن
لگانا۔
زَرَّرَ۔ الثَّوْبُ۔ بٹن لگانا یا بنانا۔
تَزَسَّرَ۔ الْقَمِيصُ۔ قمیض میں بٹن
لگانا۔
الزَّسُّ۔ گھنڈی۔ بٹن۔ ج۔ أَزْرَارُ۔
و زُرُوسٌ دل کے نیچے کی چھوٹی
بڑی۔ گڑھا جس میں بازو کی یارن
کی بڑی گھومتی ہے۔ خیمہ کی لکڑیوں
میں سے ایک لکڑی۔ زَرَّ السَّيْفُ
تلوار کی دھار۔ زَرَّا لَشَيْءٍ۔ وہ

چیز جس سے اس کا قیام ہو۔ ہو
زَرَّ مَالٌ۔ وہ مال کی اصلاح کا واقف
کار ہے۔ وَأَعْطَاهُ الشَّيْءَ بِزَرٍّ۔
اس نے اس کو تمام چیز دے دی۔
جَاءَ خُلَانٌ بِزَرٍّ۔ وہ خود آیا۔
الزَّرَّةُ۔ کاٹنے کا نشان۔ عقل۔
الزَّرَّةُ۔ کتے یا اونٹ یا گدھے وغیرہ
کی مکھی۔
الزَّرَارَةُ۔ ہر پھینکی ہوئی دیوار سے چٹ
جھلنے والی چیز۔
الزَّرَّاسُ وَالزَّرِيذُ۔ سریع الفم
تیز خاطر۔ جِمَارٌ مَزْرٌ۔ کاٹنے
والا گدھا۔
زَرَّ أَمْرًا زَرًّا وَ أَرَزَ ثَمَامًا وَ
أَرَامَ أَرِيًّا ثَمَامًا۔ کلامہ او
دَمْلًا أَوْ بَوْلًا۔ کلام خون یا پیشاب
کا بند ہونا۔ رکنا۔
زَرَبَ (ن) زَرْبًا۔ المَوَاشِي۔ مویشی
کو بارہ میں بند کرنا۔ لِلْعَلَمِ
بکریوں کے لیے بارہ بنانا۔
زَرَبَ (س) زَرْبًا۔ الْمَاءُ۔ پانی کا ہٹنا۔
أَنْزَرَسَ بَ۔ بارہ میں داخل ہونا۔
أَزْسَبَ۔ اللَّبَنَاتُ۔ پودہ کا زرد ہونا
سبزی مائل سرخ ہونا۔
الزَّسْبُ۔ داخل ہونے کی جگہ۔ شکاری
کے گھات کی جگہ۔ (وَالزَّرَبُ)
مویشی کا بارہ۔ ج۔ زُرُوبٌ۔
الزَّرَبُ۔ پانی کے بہنے کی جگہ۔
النَّارُوبُ۔ عوام لمبی تنگ گلی کو کہتے
ہیں۔ اس کے لیے فصیح لفظ الرَّقَبُ
ہے۔
الزُّرْبِيُّ وَالزُّرْبِيَّةُ۔ مسند اور گدی
تکیے۔ مِنَ النَّبَاتِ۔ زرد یا
سبزی مائل سرخ پودہ۔ ج۔ زَرَابِيُّ
الزَّسْبِيَّةُ۔ جی حضوری لوگ۔



الزَّرْبِيَّةُ: باہ۔ شیر کی جھاڑی۔ شکاری کے چھپنے کی جگہ۔ جہ۔ زَرَابٌ وَ زَرَابِيٌّ۔

المُزْرَابُ: پرنا۔ جہ۔ مَزَارِيْبُ: زَرْبَتُهُ: دھوکا دینا۔

الزَّرْجُونُ: انگور کی بلیں۔ واحد (زَرْجُونَةٌ) سرخ رنگ، شراب الزَّرْجَرُ: مست۔ متوالا۔

زَرْحٌ (دس) زَرْحًا: ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹنا۔

الزَّرِجُ: فا۔ چست و چالاک۔ جہ۔ زَرَّاحٌ۔

الزَّرْوَحُ وَالزَّرْوَحَةُ: جھوٹا ٹیلہ۔ جہ۔ زَسَادُحٌ۔

المُزْسِمُ: پست زمین۔ زَرْدَاةٌ (دن) زَسَدًا: گلا گھونٹنا۔

الْيَدَّعُ: زرہ پہننا۔ کہتے ہیں۔ "هُوَ زَرَدَعِيْنُهُ عَلَى صَاحِبِهِ"

وہ اپنے ساتھی پر غضب ناک ہوا۔ اور اس کے ساتھ ترش روئی سے

پیش آیا۔ زَرْدَاةٌ (دس) زَسَدًا وَ زَرْدَاةٌ وَ تَزَرَّدُ: اللُّقْمَةُ: لقمہ کو تیزی سے نکلنا۔ کہتے ہیں۔ "تَزَرَّدُ"

الْيَمِيْنُ: اس نے گناہ سے ہٹ کر فوراً قسم کھالی۔

الزَّرْدُ: جالی دار مٹی ہوئی زرہ۔ جہ۔ زَرْدُ: حِمَارُ الزَّرْدِ: گور خر۔

الزَّرِيْدُ: جلدی نکلنے والا۔ الزَّرِيْدُ: المَزْرَدُ: اونٹ کا گلا

گھونٹنے کی رسی۔ الزَّرِيْسُ: گلا گھونٹنے والا۔ زرہ بنانے والا۔

الزَّرَادَةُ: زرہ سازی کا پیشہ۔ المَزْرَدُ: گلا۔

المَزْدَسُ: مفع۔ "أَخَذَ مَزْدَرَجًا"

اس نے اس کو بہت تنگ کیا۔ زَرْدِيَّةٌ وَ زَرْدَمَةٌ: گلا گھونٹنا۔

الطَّعَامُ: کھانا نکلنا۔ الزَّرْدَمَةُ: نکلنے کی جگہ۔ ہوا کی نالی۔

زَرَزَرُ: الزَّرَزُورُ: زرزور پرندہ کا آواز نکالنا۔ الرجلُ ہمیشہ

زرزور پرندہ کھانا۔ یا المکان۔ اقامت کرنا۔

الزَّرَزُورُ: وَالزَّرَزُورُ: پڑیا سے بڑا ایک پرندہ، بعض بالکل کالا ہوتا ہے اور بعض چنگبر۔ جہ۔ زَرَزِيْدُ

وَزَرَزِيْدُ: الزَّرَزَارُ وَالزَّرَزَارُ: سریع الفهم ذکی۔ جہ۔ زَرَزِيْنَةُ:

الزَّرَزُورِيَّةُ: جو زرزور پرندہ کے رنگ کا ہو۔ زَرَطَا (دس) زَرَطًا: اللُّقْمَةُ: لقمہ

نکلنا۔ زَرَعٌ (ف) زَرَعًا وَ زَرَدَسَعٌ: زمین میں بیج بونا۔ الارضُ: زمین

ہوتنا، اس میں بیج ڈالنا۔ زَرَعٌ: اللّٰهُ: النَّبَاتُ: اگانا۔ بڑھانا۔ کہتے ہیں۔ "زَرَعٌ لَهُ بَعْدَ شَقَاوَةٍ"

اس نے محتاجی و فقر و فاقہ کے بعد دولت و خوشحالی پائی۔ زَارِعٌ مُزَارَعَةٌ: بونا۔ خُلَانًا

کسی کو بٹائی پر کھیت دینا۔ آزَسَعٌ: الزَّرْعُ: کھیتی کا پتہ

نکالنا۔ فصل کاٹنا۔ القومُ: کھیتی کرنے پر قادر ہونا۔

تَزَرَعٌ: إِلَى الشَّيْءِ: برائی کی طرف تیزی کرنا۔

الزَّرِيْعُ: فا۔ جہ۔ زَارِعُونَ وَ زَرَّاعٌ: ایک کہتے کا نام۔ اس لیے کتوں کو

أَوْلَادُ زَارِعٍ کہتے ہیں۔

الزَّرْعُ: کھیتی۔ بیج۔ اولاد۔ جہ۔ زَرُوْعٌ۔

الزَّرْعَةُ: بیج۔ (دس) وَالزَّرْعَةُ: وَالزَّرْعَةُ: کھیتی کے قابل زمین۔ کہتے ہیں۔ "مَا فِي هَذِهِ

الْأَرْضِ زَرْعَةٌ" اس زمین میں کھیتی کے قابل کوئی جگہ نہیں۔

الزَّرَاعَةُ: کاشتکاری۔ کھیتی۔ الزَّرِيْعَةُ: بوئی ہوئی چیز۔ کھیتی۔

الزَّرَاعُ: بہت بیج بکھیرنے والا۔ بہت بونے والا۔ چغل خور۔ کیونکہ وہ بھی کینہ

کا بیج دلوں میں بوتا ہے۔ جہ۔ زَرَّاعُونَ وَ زَرَّاعَةٌ:

الزَّرَّاعَةُ: کشت زار۔ جہ۔ زَرَّاعَاتُ: الزَّرِّيْعُ: صرف بارانی کھیت۔

الزَّرِّيْعُ: وہ نباتات جو کھیت کٹنے کے بعد گے ہوئے بیجوں سے اُگ آئے۔

المَزْرَعَةُ وَالْمَزْرَعَةُ: کھیت۔ جہ۔ مَزَارِسُ:

المَزْدَرَعُ: کھیت۔ زَرَفٌ (دس) زَرَفًا: کودنا۔ فی

الكلامِ: کلام میں زیادتی کرنا۔ جھوٹ بولنا (زَرَفًا وَ زَرِيْفًا)

الْبَدِ: نزدیک ہونا۔ دیر لگانا۔ جلدی کرنا (ہند)

زَرَفٌ (دس) زَرَفًا: الجَرَحُ: زخم کا اچھا ہونے کے بعد پھر ہر ہون جانا۔

زَرَقَهُ: علیحدہ کرنا۔ دور کرنا۔ الشَّيْءُ: زیادہ کرنا۔ فی

الكلامِ: کلام میں زیادتی کرنا۔ جھوٹ بولنا۔ القومُ: قوم کے

فرقے فرقے کر دینا۔ الومحُ: فیہ۔ نیزہ بھونکنا۔ کہتے ہیں۔ زَرَسَفٌ

نیزہ بھونکنا۔ کہتے ہیں۔ زَرَسَفٌ



علی المستین۔ وہ ساٹھ سے متجاوز ہو گیا۔

أَذْرَفَ آگے بڑھنا جلد کرنا۔
الجَوْحَرُ ترحم کا اچھا ہونے کے بعد پھر ہر اچھا ہونا۔ الناقلة۔ اونٹنی کو تیز کرنا۔ الرجل۔ زرافہ جانور خریدنا۔

انْزَرَفَ۔ القوم۔ قوم کا گھاس پانی کی تلاش میں جانا۔ البریج۔ ہو اگدر جانا۔ الشیء۔ گھس جانا۔ آ رہا ہونا۔

الزرافة والزرافة والزرافة والزرافة۔ ایک کھڑا جانور ہے اس کی اگلی ٹانگیں لمبی پچھلی چھوٹی گردن گھوڑے کے مانند۔ مگر اس سے لمبی اور کھڑی، کھال چیتے کی طرح جتنی دار۔ قد کی درازی میں اونٹ کے برابر سر پر دو چھوٹے سینک۔ ج۔ ذرانی و ذرافی و ذرافل۔ الزرافة۔ بہت چھوٹا۔

الزرافة والزرافة۔ دس یا بیس افراد کی جماعت۔ ج۔ ذرافات۔ الزرافة والزرافة وہ جگہ جہاں کھیت کے لیے پانی نکالا جائے۔ المذراف والمذروف والمذروف۔ من النوق۔ تیز رفتار اونٹنی۔ ذرقن۔ شعرة۔ بالوں کو حلقہ دار بنانا۔

الزرقین۔ حلقہ۔ ج۔ ذرافین ذرق دھن، ذرقا۔ الطائر پرندہ کا بیٹ کرنا۔ زرق عینہ نحوی۔ اس نے میری طرف نکلیوں سے دیکھا۔

ذرق۔ الطائر۔ پرندہ کو چھوٹے نیزے سے مارنا۔ الرجل بصیرہ کسی

کو گھورنا۔ الناقلة الدحل۔ اونٹنی کا کجواہ پیچھے ڈال دینا۔

ذرق (س) ذرقا۔ الرجل۔ اندھا ہونا۔ عینہ۔ آنکھ کا نیلا ہونا۔ الشیء۔ چیز کا نیلگوں ہونا۔

أزرق۔ عینہ نحوی۔ آنکھ کا پھرنا اور سفیدی ظاہر ہونا۔ الناقلة حملہا۔ اونٹنی کا کجواہ کو پیچھے کی جانب بٹانا۔

إزراق۔ إزراقا و إزراقا۔ إزریقا۔ نیلا ہونا۔ آسمانی رنگ کا ہونا۔

انزراق۔ پیچھے ہٹنا۔ چت لیٹنا۔ السهم۔ تیر کا گھسنا اور آ رہا ہونا۔ الذرق والزرقة۔ آسمانی رنگ۔ الزرقۃ۔ تعویذ کا مرہ۔

الزرق۔ ایک شکاری پرندہ۔ ج۔ ذراسق۔ گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔ تیز نظر والا۔

الأسرق۔ نیلگوں۔ مؤنث۔ زرقاء۔ ج۔ زرق۔ الأسرق۔ باز۔ نصل أسرق۔ چمکتا ہوا تیر کا پھل ماء أزرق۔ صاف پانی۔ عدو أزرق۔ سخت دشمنی۔

اس لیے کہ رومیوں اور دینیوں کی آنکھیں نیلی ہوتی تھیں اور ان کے اور عرب کے درمیان سخت عداوت تھی لہذا وہ ہر شخص دشمن کو یہ کہنے لگے۔

الزرقاء۔ مؤنث۔ آسرق۔ ج۔ زسرق۔ شراب، آسمان۔ الزریق و أبو زریق۔ چڑیا سے قدرے بڑا ایک پرندہ۔

الزریق۔ دودھ اور زیتون میں بھلویا ہوا کھانا۔ ایک بلی کے مشابہ جانور۔ الزرافة۔ ایک پکڑی۔ عوام اس کو

زادوقۃ۔ بولتے ہیں۔

الأزرقۃ۔ خارجیوں کا ایک بہت متعصب فرقہ۔ واحد۔ (الأزرقی) المذسائی۔ برہمی۔ چھوٹا نیزہ۔

من الأباخر۔ پیچھے کی طرف بوجھ ملنے والا اونٹ۔ ج۔ مزاریق۔ المرقح۔ گہرا نیلا۔ گہرا آسمانی۔ ج۔ ذراق۔

الزراق۔ بہت سے سانپ۔

ذرق (س) ذسقا۔ بدخلق ہونا۔

ذرمۃ (ض) ذرمۃ و ذرمۃ و ذرمۃ۔

کاٹنا۔ کہتے ہیں "ذرمۃ اُمۃ۔

اس کی ماں نے اس کو جنا۔" ذرمۃ الدھر۔ زمانہ نے اس کی خیر کا سلسلہ منقطع کر دیا۔

ذرم (س) ذرمۃ۔ الشیء۔ چیز کا منقطع ہونا۔

إذرمۃ۔ ننگنا۔

إزراق۔ غضبناک ہونا۔ سکرنا۔

الزرم۔ ذیل۔ تھوڑے جتنے والا۔ بخیل۔

ننگ حال۔

الأسرق۔ منقطع۔ بلی۔

الزریق۔ تھوڑے جتنے والا۔ ذیل۔

الزرق۔ ایک خوشبودار پودہ، جس کو رجل الجراد۔ بھی کہتے ہیں۔ برہمی زعفران۔ نیل گائے۔

الزریق۔ ہڑتال۔

ذرق۔ ذرقۃ۔ الارض۔ زمین

کو چھوٹی نہر سے پانی پلانا۔ خلافا

اللباس کسی کو لباس پہنانا۔

تذریق۔ یا لثیاب۔ کپڑے پہنانا۔

الزریق۔ چھوٹی نہر۔ پانی کی نالی۔

الزرقۃ۔ زیادتی۔ پوری پوری

خوب صورتی۔

الزریق۔ ہڑتال۔

زَرَى رَضٍ، زَرِيًّا وَزُرِيًّا وَزَرَايَةً
وَمَزْرِيَّةً وَمَزْرَاةً وَأَزْرَى
وَتَزَرَّى - عَلَيْهِ عَمَلُهُ -
کسی کام پر عتاب کرنا۔ عیب لگانا۔
أَزْرَى بِالْأَمْرِ - کسی امر میں سستی
کرنا۔ أَزْرَى بِهِ وَأَزْرَاهُ -
بدگوئی کرنا۔ حق کم کرنا۔
زَارَاهُ مُزَارَاةً - ایک دوسرے پر
عتاب کرنا۔
أَزْدَرَى وَاسْتَزَرَى - ۱۔ حقیر
جاننا۔ ذلیل سمجھنا۔
الزَّرْسِيُّ نَاكَارُهُ - ذلیل۔
الْمِزْرَاءُ لُغُوں کو حقیر جاننے والا۔
لُغُوں کا عیب گیز۔
زَطَرَنَ زَطًّا - الزَّبَابُ - مکھی کا
بھنبھانا۔
زَعَبَ (ف) زُعْبًا - الْإِنَاءُ - برتن
بھرننا۔ الْعِدْبَةُ - بھری مشک
اٹھانا۔ الْقِرْبَةُ - مشک کا
پانی نکالنا۔ السَّيْلُ - سیلاب
کا وادی کو بھر دینا۔ الْوَادِي
وادی کا بھر جانا۔ الشَّيْءُ - چیز کو
کاٹنا۔ لَهُ مِنَ الْمَالِ -
(زُعْبًا وَزُعْبَةً وَزُعْبَةً) مال
کا ایک حصہ دینا۔
زَعَبَ (ف) زُعْبًا - الْغُرَابُ - کوئے
کا کائیں کاٹیں کرنا۔
تَزَعَّبَ - غیظ و غضب میں آنا۔ خوش
ہونا۔ چست ہونا۔ رَفِيًّا كَلْبُهُ -
اَوْشَرِيَّةً - زیادہ کھانا پینا۔
الْقَوْمُ الْمَالُ - قوم کے مال کو کہیں
میں بانٹ لینا۔
أَزْدَعَبَ - الشَّيْءُ - کاٹ لینا۔
الزُّعْبَةُ وَالزُّعْبَةُ وَالزَّاعِبُ -
مال کا ایک حصہ۔

الْأَزْعَبُ كَيْفَهُ، پستہ قد۔ موٹا۔ مُوْنَتْ
زُعْبَاءُ - ج۔ زُعْبٌ - سَيْلٌ
زَاعِبٌ وَزُعُوبٌ - وادی کو
بھروینے والا سیلاب۔
الزُّعُوبُ - پستہ قد، کینہ۔
زُعْبَقٌ - الْقَوْمُ - قوم کو متفرق کرنا۔
پراگندہ کرنا۔ الشَّيْءُ - چیز کو جدا
جدا کرنا۔ بکھیرنا۔
تَزَعْبَقُ - الشَّيْءُ مِنْ يَدِي - چیز
میرے ہاتھ سے بکھر گئی متفرق ہو گئی۔
زُعْبَلٌ - موٹے بدن اور پتی گردن والا
ہونا۔
الزُّعْبَلُ - موٹے پیٹ اور پتلی گردن والا
اڑدبا۔ گرگٹھ۔ ڈول۔ ج۔
زُعَابِلٌ -
زُعْبَجَةٌ (ف) زُعْبَجًا وَزُعْبَجٍ -
بے قرار ہونا۔ جگہ سے ہٹانا۔
دھتکارنا۔ زُعَجَ - الرَّجُلُ -
کسی کا چلانا۔ أَزْعَجْتُهُ إِلَى
الْمَعْصِيَةِ - گناہ کی طرف لے جانا۔
لَنْزَحَجَ - بے قرار رہے چین ہونا۔ ہٹنا۔
الزُّعْجُ - بے قراری۔ بے چینی۔ بے آرامی
الْمِزْعَاجُ - ایک جگہ نہ ٹھہرنے والی
عورت۔
زَعَرَسَ زَعْرًا وَزَعْرًا وَزَعْرًا
- شَعْرَةً (وَرِيْشَةً) - بالوں
یا پروں کا کم یا بکھرا ہوا ہونا۔ و
زَعَرَ - الرَّجُلُ - آدمی کا بے خبر
ہونا۔
الزَّعَارَةُ وَالزَّعَارَةُ - بد خوئی،
تند مزاجی۔
الزَّعْرُ وَالْأَزْعَرُ - کیا بکھرے ہوئے
بالوں والا۔ مَوْضِعٌ زَعْرٌ و
أَزْعَرٌ - کم سبزی والی جگہ۔
مُونَتْ - زَعْرَةٌ وَزَعْرَاءُ -

الزُّعْرَةُ - ایک پرندہ جو ہمیشہ اضطراب
و حرکت میں رہتا ہے۔
الزُّعْرَانُ - نوجوان لوگ۔
الزُّعْرُوسُ - ایک سرخ پھل والا درخت۔
اس کے پھل کی گٹھلی گول بڑی ہوتی ہے
اور گودا کم ہوتا ہے۔ واحد
(زُعْرُورَةٌ) رَجُلٌ زُعْرُوسٌ -
بد خلق کم خیر آدمی۔ ج۔ زُعَارِيْرُ -
زُعْرَعْلَةُ زُعْرَعْلَةٌ - زور سے ہلانا۔
- الْإِبِلُ فِي السَّيْرِ - اونٹ
کو ہانکنا۔
تَزَعَزَعَ - حرکت میں آنا۔ ہلنا۔
الزُّعْرَعْلَةُ - ج۔ زُعَارِعٌ - (وَالزُّعَارِعُ)
مصاب زمانہ۔ رِيْجٌ زُعْرَعٌ و
زُعْنَعٌ وَزُعْنَاعٌ وَزُعَارِعٌ و
زُعْرَعَانٌ (آندھی) ہوا کا طوفان
جَرِيٌّ زُعْرَعٌ - تیز دھڑ۔
زُعْطَرَفٌ زُعْطًا - گلا گھونٹنا۔
الزَّاعِطُ - فَا - مَوْتُ زَاعِطٌ - ناگہانی
موت۔
زَعْفَهُ (ف) زَعْفًا وَزَعْفَةً و
أَزْدَعْفَهُ - فُورًا مَارُؤَالًا -
زَعْفَ الْبَجْرِ يَحْ وَأَزْعَفَ عَلَيْهِ
زخمی کا کام تمام کر دینا۔ زَعْفَ
الْحَدِيثِ - بھٹوٹ سے کام لے کر
حدیث میں زیادتی کرنا۔ سَحَّ
زُعَافٌ - سم قاتل۔ مَوْتُ
مُزْعِفٌ - ناگہانی موت۔ اچانک
موت۔ سَيْفٌ مُزْعِفٌ - جلد
ہلاک کرنے والی تلوار۔ الزُّعُوفُ
ہلاکت کی جگہیں۔ خطرناک جگہیں۔
زَعْفَرَةٌ - زعفران میں رنگنا۔ الطَّعَامُ
کھانے میں زعفران ملانا۔
تَزَعْفَرُ - زعفران سے خوشبودار ہونا
زعفران میں لٹھڑنا۔ بسنا۔



الزَّعْفَرَانُ - زعفران کیسر۔ زَعَا فِرُّ - زَعْفَرَانُ الْحَدِيدِ - لوہے کا زنگ۔

زَعْفَقُ - الزُّعَاقِقُ - بخیل۔ بدخلق۔ جہ۔ زَعَا فِرُّ -

زَعَقَ (ف) زَعَقًا - چیمنا۔ جیلانا۔ - دُ زَعَقَ بِهِ - ڈرنا۔

بَالِدًا أَبَدًا جانور کو زور سے للکارنا ہانکنا۔ الزَّيْجُ التَّوَكَّبُ - ہوا کا مٹی اڑانا۔ دُ الْعَقَرَبُ - کسی کو بچھو کا ڈسنا۔ الْقَدَرُ - ہانڈی میں بہت نمک ڈالنا۔

زَعَقَ (ك) زَعَا قَلْبُ - المَاءُ - پانی کا سخت کرنا۔ ہونے کی وجہ سے پینے کے قابل نہ ہونا۔

زَعَقَ دَسَ - زَعَقًا - خوش و شادمان ہونا۔ (دُ زَعَقَ وَأَنْزَعَقَ) -

الرَّجُلُ - رات میں ڈرنا۔ - أَنْزَعَقَ الْفَرَسُ - گھوڑے کا آگے بڑھنا اور تیز چلنا۔

أَزَعَقَهُ - ڈرانا۔ خوف زدہ کرنا۔ السَّيْبُ - چلنے میں جلدی کرنا۔

الْقَدَرُ - ہانڈی میں نمک زیادہ ڈالنا۔

الزَّعِقُ - رات میں ڈرنے والا۔ وہ جو خوشی کے ساتھ خوف بھی رکھتا ہو۔

الزَّعَقَةُ - پیچ۔ پکار۔ الزُّعَاقُ - نہ بیا جاسکے والا کرٹوا پانی۔

الزُّعَاقُ - مِنَ الْخَبْلِ - بہت اور تیز چلنے والا۔ وہ جو جانوروں کو ہانکے اور ان کے پیچھے پیچھے چلاتا جائے۔

الزَّعِيْقُ - خوفزدہ۔ زَعِلَ (دَسَ) زَعَلًا - شادمان ہونا۔

- مِنَ الْمَرْعِيْنِ دَغِيْرٌ - اکتانا۔ مضطرب ہونا۔

أَزَعَلَهُ - خوش کرنا۔ مِنْ مَكَانِهِ - جگہ سے ہٹانا۔

تَزَعَّلَ - شادمان ہونا۔ الزَّعِلُ وَالزُّعْلَانُ وَالْإِسْرَاعِيلُ -

شادمان۔ زَعَمَ دَفَنَ زَعَمًا وَزَعَمًا وَ زَعَمًا وَ مَزَعَمًا - کوئی سچ یا جھوٹ بات کہنا۔

شکی یا جھوٹی باتوں میں اس کا استعمال بیشتر ہوتا ہے۔ (دُ زَعَا مَتَمٌ عَلَى الْقَوْمِ - قوم کا امیر و سردار ہونا۔

زَعَمَ دَفَنَ زَعَمًا - بِالْمَالِ - کفیل و ضامن ہونا۔ اللَّبَنُ - دودھ کا خوشگوار ہونا۔

زَعَمَ دَسَ (دُ) زَعَمًا - فَيْلُهُ - لالچ کرنا۔ أَزَعَمَ - الْأَمْرُ - ممکن ہونا۔

اللَّبَنُ - دودھ کا خوشگوار ہونا۔ - الْيَهُودُ - کسی کا مطیع و فرمانبردار ہونا۔

عَلَى الْقَوْمِ - کسی قوم کا سردار اور پیشوا ہونا۔ الْأَرْضُ - زمین میں سبزی کا پھوٹنا۔

دُ كَلَّانَا أَزَعَمَهُ الْمَالُ - مال کا کفیل و ضامن بنانا۔

زَاعَمَهُ - بھڑکانا۔ تَزَعَّمَ - جھوٹی جھوٹی باتیں کہنا۔

تَزَاعَمَ - الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِ - ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ آپس میں غیر وثوقی باتیں بنانا۔

الزَّعَمُ - مِنَ الشَّيْءِ - بہت چربی والا کہ آگ کی حشرات ملتے ہی چربی ٹپکانے لگے۔

الزَّعَمَةُ - زَعَمًا كَأَسْمَرَةٍ - جہ۔ زَعَمَاتٌ -

الزَّعِيْقُ - جھوٹا۔ سچا۔ (فَدُ) الزَّعَامَةُ - شرافت۔ سرداری، مہتمیاری۔

زَرَهُ - مال کا زیادہ یا بہتر حصہ۔ كَلَّئِ الزَّعُوْمُ - گفتگو میں رکنے والا۔ گفتگو میں عاجز۔

الزَّعِيْمُ - ضامن۔ کفیل۔ جواب دہ۔ سردار۔ رئیس۔ جہ۔ دُ عَمَاءُ -

الْمَرْعَمُ - لالچ کی جگہ۔ کہتے ہیں۔ هَذَا أَمْرٌ مَزَعَمٌ - یہ ایک غیر وثوقی بات ہے۔

اس میں ہر ایک اپنا خیال ظاہر کرتا ہے۔ هَذَا أَمْرٌ فِيهِ مَزَاعِمٌ - اس بات میں جھگڑے ہیں۔

زَعَنْفَتُ - الْمَاشِطَةُ الْعَرُوسُ - مشاطہ کا دلہن کو آراستہ کرنا۔

الزَّعَنْفَةُ وَالزَّعَنْفَةُ - پستہ قد مرد یا عورت۔ ہر چیز کا حصہ۔ اطراف بدن۔ مغلّات، پیر۔ چیز کا ردی حصہ۔

کپڑے کا ایک ٹکڑا یا لباس کا دامن۔ مصیبت۔ جہ۔ زَعَانِفُ - الزَّعَانِفُ - پھلی کے پر۔ مخلوط گروہ جو ایک نسل سے نہ ہوں۔

زَعَا يَزْعُو زَعَوًا - منصف و عادل ہونا۔

زَعِبَ (دَسَ) زَعِبًا وَزَعَبَ وَزَعَابَ - الصَّبِيُّ وَالْفَتْمَةُ - بچہ یا چوزہ کا رواں نکلنا۔ صفت۔ (زَعِبَ) -

زَعَبَ - الْكُوْمُ - انگوڑی کیل میں پتے آنے لگنا۔

الزَّعْبُ - پروں یا بالوں کے روئیں۔ واحد (زَعْبَةٌ) -

الزُّعَابِيُّ وَالزُّعَابِيَّةُ - بہت جھوٹے روئیں بہت نرم پر یا بال۔ کہتے ہیں۔ مَا أَصَبْتُ مِنْهُ زُعَابَةً - میں نے اس سے روئیں برابر بھی کچھ نہیں لیا۔

الزُّعْبُ - روئیں دار۔ مومن۔ زَعْبَاءُ - جہ۔ زُعْبٌ - بٹ تیر کا چوزہ۔

الزُّحَلِيُّ - دھوکا دینے والا۔

الزَّغَلَّةُ: کلی کا پانی جو منہ سے پھینکا جائے

ایک مرتبہ پانی گرانے کی مقدار۔

الذغلول - بچہ - چست پھرتیلا آدمی - ج

ز غَائِلُ۔

تَرْغَمَ - الْجَبَلُ - اَمْنٌ كَا اِنِّی

جھانکوں کو جیڑوں میں پھرانا۔

تَزْغَمَ - الرَّاحِلُ - اُدْمَى كَاعَصَه

سے بولنا۔

الزَّغُومُ وَالزَّغُومَرُ - يَهْكُلَا. المَكْرُ

بولنے والا۔

زَفْرَضْ زَفَا وَزَفُوفَا وَزَفِيفَا -

تیز دورنا - ایس یح - ہوا کا ہستہ

چلند - زفا وزفیفافا الطایر

پُرندہ پر چیلہ لڑا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

ایسی راوی جہاں دو روایتوں میں اختلاف ہو

پیش رو بنیاد — (کے بریں) بنیاد
جھکنا۔

العَاوُسُ - دلهن کوشور

کے پاس بھیجنا۔ الرَّحْلُ۔ تزدورنا

— ۸۰ — تنویر و طرانا۔

ازدرف - الحمل - بوجھ اٹھانا۔

اَسْتَرْفَعُهُ - السَّيْلُ - سِيَابٌ كَابِرٌ

بے جانا — ۸ السَّيْرُ — سُبک بنانا

الزَّفَّ - چھوٹے چھوٹے پر۔

الزف - پرنده کے گھنے، ایک پر ایک چڑھ

ہوئے روئیں۔

الزَّفَّةُ - زَفٌّ كَالِاسْمِ مَرَّةً - جِئْتُهُ

زفتہ اور زفتین میں اس کے پاس

ایک یادو بارایا۔

الزفة - لمر - دسة -

الذوق - نیز رفتار - باریک اور نچان

پروں والا۔

الزقوف - ستر مرغ - یز او سی -

زَفِيفٌ - تیز۔

المِزْفَةُ - پاکی۔

زَفَّتْ (ن) زَفَّتًا - الإِنَاءُ - برتن بھرنا۔

- الرَّجُلُ - ناراض کرنا۔ منع کرنا۔

دھتکارنا۔ تھکانا۔ کہتے ہیں "زَفَّتْ

الحديث في أذن الأصم" یعنی

بھرے کے کان میں بات ڈال دی۔

زَفَّتْ - السَّيْفِيَّةُ کشتی پر زفت

ملنا۔

الزَّفْتُ - مال۔

زَفَّدَ (ن) زَفْدًا - الإِنَاءُ - برتن بھرنا۔

- فَرَسُهُ شَعِيرًا - گھوڑے کو

بہت جھکھلانا۔

إِزْدَقَّتْ - المَالُ سب مال لے لینا۔

زَفَرْتُ (ن) زَفْرًا وَ زَفِيرًا -

النَّاسُ - آگ کے بھڑکنے کی آواز

سنائی دینا - الاسر من زمین

کاسبزہ اگانا - زَفَرَ الرَّجُلُ

لباساں لینا - الجَمَارُ گدھے

کا ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگنا۔ وَ زَفَرَ

الشَّيْءَ زَفْرًا - اٹھانا - المَاءُ

پانی کھینچنا۔

إِزْدَفَرَ - الشَّيْءَ - اٹھانا۔

الزَّفَرُ - بھاری بوجھ۔ مشک۔ مسافر

کاسامان۔ گرہ۔ دستہ۔ فوج۔

جہ۔ اَزْفَارُ -

الزَّفَرُ - درخت کے نیچے لگانے کی

تھوٹی۔

الزَّفَرُ - شیر۔ بہادر۔ سمندر۔ بہت

پانی کی ہنر۔ فیاض۔ سخی۔ سردار۔

مشکیں اٹھانے میں خوب مضبوط۔

بہت بخشش۔ دستہ فوج۔

الزَّفِيرُ - مصیبت۔ گدھے کی آواز کا

آغاز۔ آخر کو شہمیں کہتے

ہیں۔

الزَّفَرَةُ وَالزَّفَرَةُ - لباساں۔

گرم سانس۔ زَفَرَةُ الدَّابَّةِ

وَزَفَرَتَهَا - جانور کا پھولا ہوا پھلو

زَفَرَةُ الشَّيْءِ وَ شَفَرَتَهُ -

اردوس فَرَسُ اَزْفَرُ - بڑے

پھلوں والا گھوڑا۔ جہ۔ زَفَرُ -

الزَّفَرَةُ - جماعت۔ دستہ فوج۔

مصیبت۔ پرکے علاوہ تیر کا باقی

حصہ۔ کندھا اور اس کا گردا گرد۔

کمان۔ بڑا سردار۔ زَا فِرَةُ

الرَّجُلِ - آدمی کے اقارب و عوان

و انصار۔ زَا فِرَةُ الْبِنَاءِ -

عمارت کا تھم۔ جہ۔ زَوَا فِرُ

الزَّوَا فِرُ - پسلیاں۔ فَرَسُ

شَدِيدُ الزَّوَا فِرِ - مضبوط

پسلیوں والا گھوڑا۔ پانی کی مشک

لانے والی لونٹیاں۔ انگوروں کی بیل

کو اٹھانے کے جھکے کا شہ تیر۔

زَوَا فِرُ الْمَجْدِ - بزرگی کے سبب

علی۔

الْمُزْفَرُ - وَالْمُزْدَقَرُ - لباساں۔

سانس لینے کی جگہ۔

الْمُزْفَرُ - مِنَ الدَّابَّةِ - مضبوط

جوڑوں والا جانور۔

زَفَزَفَ - الرَّجُلُ تیز چلنا۔ اچھی

چال چلنا۔ الطَّائِرُ - پرندہ کا

پر پھیلا کر نیچے اترنا۔ الرِّيحُ

الحَشِيشُ - ہوا کا گھاس کو

حرکت دے کر اس میں سے سائیں

سائیں کی آواز نکالنا۔ المَرْكَبُ

سواری کے چلنے سے آواز سنائی

دینا۔

الزَّفَزَفُ وَالزَّفَزَاتُ وَالزَّفَزَا فَةُ

پہیم تیز چلنے والی ہوا۔ الزَّفَزَاتُ

شتر مرغ۔ ہلکا۔

زَقَنَ (ن) زَقْنًا - ناچنا۔ زور کا دھکا

دینا اور لات مارنا۔

الزَّقْنُ - بھت کے اوپر کا چھپر۔ النَّا قَةُ

الزَّافِنَةُ وَالْمَزْفُونُ - لنگڑی

اونٹنی۔

الزَّقَانُ - ناچنے والا۔

الزَّفَنَةُ - حرکت۔ رجلُ اَزْفَنَةُ

حرکت کرنے والا آدمی۔ حرکت کرنے

والا۔

الزَّبْزَفُونُ - ایک سفید پھول اور بے

پھل کا درخت۔ نَاقَةُ زَبْزَفُونُ

تیز رفتار اونٹنی۔

زَقَى (ن) زَقِيًا وَ زَقِيَانًا - زَفَّتْ

الْقَوْسُ - کمان کا آواز کرنا۔

الرَّيْحُ السَّحَابُ وَ التُّرَابُ وَ غَوَّهَ -

ہوا کا بادل اور مٹی وغیرہ کو اڑانا۔

الرجلُ بِنَفْسِهِ - جان دینا۔

أَزَقَى - الشَّيْءَ - کسی شے کو ایک جگہ

سے دوسری جگہ لے جانا۔ اور اسی

سے ہے "أَزَقَيْتُ الْعَرُوسَ"

یعنی میں دلہن کو سسرال لے گیا۔

الزَّاقِي - ہلکا۔ تیز رفتار۔

الزَّقِيَانُ - ہلکا پن۔ ہلکا۔ نَاقَةُ

زَقِيَانُ - تیز رفتار اونٹنی۔

الْمُزْنِي وَالْمُزْنِي وَالْمُزْنِي - ڈرایا

ہوا۔

زَقَى (ن) زَقًا - الطَّائِرُ - پرندہ کا

بیٹ کرنا۔ فَرَحَهُ - چوزہ

کو چوگا دینا۔ الْكَبْشُ - مینڈھے

کی کھال اتارنا۔

زَقَّقَ - الْكَبْشُ - کھال اتارنا۔

الْجِلْدُ - چمڑے کے بال کاٹنا۔

الزَّقِي - مشک۔ زَقَى الْحَدَّادُ -

لوہار کی دھونکنی۔ بھٹی۔ جہ۔ أَزَقَاقُ

وَزَقَاقُ وَ زَقَانِي وَ أَزَقِي -

الزُّقُّ - شراب۔ جر۔ زَقَفَهُ۔
الزَّقْفَةُ - جھوٹے بچوں کو چوکا دینے والے
کبوتر۔ جھوٹے بچوں کو پیار کرنے
والے۔

الزُّقَاقُ - کوچہ۔ گلی۔ تنگ راستہ۔ جر
أَزَقَتْهُ زُقَانٌ۔

الزُّقَاقُ - وَبَحُوا الزُّقَاقُ - جبرالط
کی آبنائے۔

الزُّقَّةُ وَالزُّقِيُّ - پن ڈبی نامی ایک
آبی پرندہ۔ الزُّقَاقُ - مشک
بنانے والا۔

زَقَبَ (ن) زَقَبًا - الْجُرْسُ فِي
حُجْرَةٍ - چوبے کا اپنے سوراخ
میں داخل ہونا۔ وَزَقَبَهُ فِي
الْحُجْرَةِ - داخل کرنا (لازم و
متعدی)

زَقَبَ - الْمَكَارُ - مکا پرندہ کا آواز
کرنا۔

لِزَقَبَ - الْجُرْسُ فِي الْحُجْرَةِ -
چوبے کا سوراخ میں داخل ہونا۔

الزُّقَبُ - تنگ راستہ۔ نزدیکی۔ کہتے ہیں
”رَمَيْتُهُ مِنْ زَقَبٍ“ میں نے اس
کو نزدیک سے مارا۔

زَقَمَ (ن) زَقَمًا وَزَقَا حًا -
الْقُرْدُ - بندر کا چڑچڑ کرنا۔

زَقَزَقَ - زَقَزَقَةً وَزَقَزَاقًا -
الطَّائِرُ پرندہ کا بیٹ کرنا۔

بچھانا - قَوَّخَهُ - چوزہ کو چوکا
دینا - الصَّبِيُّ بچہ کو کدانا -

الرجل - مسکراتا۔ ہلکی ہنسی
بنسانا۔ ہلکا ہونا۔

الزُّقَاقُ - آہستہ چلنے والا۔ ایک قسم
کی چوٹی۔

زَقَعَ زَقْعًا وَزَقَاعًا - السَّيْلُ
مرغ کا بانگ دینا۔ لکڑوں کو لکڑیاں کرنا۔

— الْجَمَارُ گدھے کا زور سے
گوز کرنا۔

زَقَفَتِ (ن) زَقْفًا وَتَزَقَفَتْ وَ
أَزْدَقَتْ - الشَّيْءُ - کسی شے کو

ایک بیک چھین لینا یا ایک لینا۔
اسی سے ہے ”تَزَقَفَتِ الْكُرَّةُ“

بِالصُّوْلَانِ - یعنی اس نے ہاکی
سے گیند چھین لی۔ تَزَقَفَتْ وَ

أَزْدَقَتْ اللَّقْمَةَ - لقمہ نکلنا۔
الزُّقْفَةُ - ہلکی ہوئی چیز۔ ہر چھینی ہوئی چیز

زَوْقُلٌ - گڑبڑ کے سہ لگانا۔ زَاقِلٌ
العِمَامَةُ عامہ کے نیچے سے نکلے

ہوئے بال۔
زَقَمَهُ (ن) زَقَمًا وَاسْتَزَقَمَهُ -

لقمہ نکلنا۔
أَزَقَمَهُ - الشَّيْءُ - کوئی چیز نکلوانا۔

زَقَمَهُ - تھوڑا کھانا۔
تَزَقَمَهُ لقمہ لینا۔ نکلنا۔ تھوڑا کھانا۔

اللسِّنَ - دودھ بہت پینا۔
الزُّقْمُ - تھوڑا درخت۔ جسم کے

ایک درخت کا نام۔ مہلک خوراک۔
ایک خود رو گھاس جس کا پھول جھیلی

کے پھول کے مشابہ ہوتا ہے۔
الزُّقْمَةُ - ایک دفعہ کا نکلنا۔ طاعون۔

زَقَنَ (ن) زَقَنًا - الْحَمْلُ
بوجھ اٹھانا۔

أَزَقَنَهُ - اٹھانے میں مدد دینا۔
زَقَا (ن) زَقَا وَزَقَاءً وَزُقَبًا

وَرُقَبًا وَزُقُوءًا وَزُقَاقًا (ن)
زُقَبًا - الطَّائِرُ پرندہ کا

بچھانا۔ صفت مذکر (زَاقٍ) جر
زَوَاقٍ - صفت مؤنث (زَاقِيَةٌ)

جر زَوَاقٍ - الصَّبِيُّ بچہ
کا بہت رونا۔

الزُّقِيَّةُ - درہوں یا اور چیزوں کا ڈھیر

الزُّقِيَّةُ - چینگ۔
زَكَّ (ن) زَكَاً وَزَكَاً وَزَكِيًّا۔

— الشَّيْخُ - دوڑنا۔ بوجہ کمزوری
کے قریب قریب قدم رکھنا۔

زَكَا، الْعِلَامُ - دوڑنا۔
الْقُرْبَةُ - مشک بھرنے۔

بِالسَّلَاحِ - بیٹ کرنا۔ زَكَّهُ
المَاءُ آسودہ و سیر کرنا۔ علی

فُلَانٍ - کسی پر غضبناک ہونا۔
زَكَّ - الرجلُ - بوڑھا ہونا۔ بیماری

سے کمزور ہونا۔
أَزَكَّ - عَلَى الْأَمْرِ - کام پر اصرار کرنا

— بِذِيْلِهِ - رائے میں اکیلا ہونا
تَزَكَّكَ - ہتھیار اٹھانا۔

أَزْدَكَ - الزَّمْعُ - کھیت کا
سیراب ہونا۔

الزُّكُّ - فاختہ کا چوزہ۔
الزُّكَّةُ - ہتھیار۔ الزُّكَّةُ - غم و غصہ

زَكَاةً (ن) زَكَاً - مَارَا - زَكَاةً
الدَّرَاهِمَ - نقد دینا، یا جلدی

نقد دینا۔ زَكَاةً حَقَّةً - کسی کا
حق ادا کرنا۔ إِلَيْهِ - کسی کی پناہ

لینا۔
أَزْدَكَ - حَقَّهُ مِنْهُ - اس نے اس

سے اپنا حق لے لیا۔ رَجُلٌ زَكَاؤُ
زَكَاةً وَزَكَاؤُ - النَّقْدُ - نقد


روپے ادا کرنے والا آدمی۔ مالدار۔
الْمَزَكَاؤُ - جائے پناہ۔

زَكَبَ (ن) زَكَبًا وَزَكُوبًا -
الْإِنَاءُ - برتن بھرنے۔ الْمَرْأَةُ

عورت کا ایک ہی درو میں بچہ جن
دینا۔

أَزْكَبَ - الْبَحْرُ - سمندر کے پانی کا
پست زمین میں یا گڑھے میں داخل ہونا

الزُّكْبَةُ - لڑکا۔



ذَكَتَ دَن، ذَكَّتَا وَآذَكْتَ وَذَكَتَ

— الإِنَاءُ — برتن بھڑنا۔

آذَكْتِ — الْمَرْأَةُ بِغُلَامٍ — عورت کا لڑکا جتنا۔

زَكَوْدَن، زَكُوا وَزَكَرَ — الإِنَاءُ برتن بھڑنا۔

زَكَرُوا وَتَزَكَرَ — الإِنَاءُ — برتن بھڑنا۔

الزُّكُورَةُ — شراب وغیرہ رکھنے کے لیے چڑے کا برتن — جہ — زَكَرَ۔

ذَكَرَكَ — الشَّيْخُ — بوڑھے کا بسبب کمزوری قریب قریب قدم رکھ کر چلنا۔

تَزَكَّرَكَ — مَسْتَحْبَابٌ اِطْهَانًا۔

ذَكَمَدَن، ذَكَمَا وَآذَكَمَا زَكَامٌ میں مبتلا کرنا — الْقَدْبَةُ — مشک

بھڑنا — ذَكَمَتْ بِهِ أُمُّكَ — جتنا

ذَكَمَ زَكَامٌ کی شکایت والا بھڑنا۔ صفت (مَزَكُوهُ)

الزُّكَمَةُ — زَكَامٌ — اولاد۔ کہتے ہیں۔

”لِفُلَانٍ زَكَمَةٌ سُوءٌ“ — فُلَانٌ کی بری اولاد ہے۔

الزُّكَمَةُ — أَجْدُ أَكْهَرُ آدمی — آخری بچہ۔

ذَكِينٌ (دَس)، ذَكْنًا — الْأُمْرُ — کسی

ام کو سمجھ لینا۔ تاڑ جانا۔ گمان کرنا۔

کہتے ہیں ”ذَكْنْتُ أَنَّكَ رَجُلٌ سُوءٌ“ میں نے جان لیا کہ وہ بُرا آدمی ہے۔

وَمِنْهُ عَدَاوَةٌ — کسی کی عداوت کا پتہ لگا لینا۔

ذَكُونًا، اَلْأَكْبَرُ — پناہ لینا۔ چل جانا۔

ذَكْنٌ — گمان کرنا۔ عَلَيَّكَ — مشتبہ ہونا مشکوک ہونا۔

ذَاكَتَ — ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ کہتے ہیں ”هَذَا الْجَيْشُ“

يُذَاكِنُ الْأَنْفِيْنَ — یہ لشکر دو

ہزار کے قریب ہے۔ ذُ — قریب ہونا ہم نشین ہونا۔

آذَكْنَهُ — الْأَمْرُ — کسی کو کوئی امر جتنا — سبھانا — الشَّيْءُ — صحیح

گمان ہونا۔

الزَّكَانَةُ وَالزَّكَانِيَةُ — گمان کی دستی و سچائی۔ رَجُلٌ زَكِيٌّ — اچھی یادداشت کا آدمی۔

زَكَائِزُ كُوزٍ كَاءٌ وَزَكُوٌّ وَزَكِيٌّ (س) زَكِيٌّ — الزَّرْعُ — فصل کا

بڑھنا — الرَّجُلُ — نیک و صالح ہونا۔ خوش حال زندگی گزارنا۔ زکی

ہونا — الْارْضُ — زمین کا عمدہ ہونا۔

هَذَا لَا يَذْكُوْكَ بِكَ — یہ تمھارے لائق نہیں۔

ذَكِيٌّ — بڑھنا۔ زیادہ ہونا۔ پیاسا ہونا۔

— ذُ اللَّهُ — بڑھانا۔ پاک کرنا۔ اصلاح کرنا۔ زکوٰۃ لینا۔ ذَكِيٌّ

مَالُهُ — مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔

نَفْسُهُ — اپنی تعریف کرنا۔

آزَكِيٌّ — الزَّرْعُ — کھیتی کا بڑھنا۔

ذُ اللُّمُ — بڑھانا۔

تَزَكَّى — صدقہ دینا۔ زکی ہونا —

الشَّيْءُ — بڑھنا۔ زیادہ ہونا

الزَّكَاءُ — جنتِ عدد — ”أَحَنَّا هَذَا أَمْ زَكَا“ — یہ طاق ہے یا جفت۔

الزَّكَاءُ — چیز کا عمدہ حصہ۔ زکوٰۃ۔ صدقہ پاکیزگی۔ جہ — زَكَوْا وَزَكَوَاتٌ۔

الزَّكَاةُ — فا۔ اچھی نشوونما پانے والا جہ — زَكَاتٌ۔

الزَّكِيُّ — عمدہ نشوونما پانے والا۔ جہ

آزَكِيَاءُ — مؤنث زَكِيَّةٌ —

أَسْرَضُ زَكِيَّةٌ — عمدہ زرخیز زمین۔

زَلَّ (ض س) زَلَّ وَزَلَّ وَزُلُوًّا

وَزَلِيلًا وَمَزَلَّةٌ وَزَلِيلٌ وَ

زَلِيلًا — پھسلنا۔ گرنا۔ عَنِ الْحَقِّ

الْحَقِّ أَوِ الصَّوَابِ — حق و صواب سے بھڑنا۔ عَمُورًا — زندگی کا گذرنا۔

زَلَّ زَلِيلًا وَزُلُوًّا، جلد گذر جانا وَزَلَّ زُلُوًّا، الْمَدْرَهُمُ

درہم کا کم وزن ہونا۔ صفت۔

زَلَّ (ذال) — جہ زَوَالٌ — زَلَّ زَلَالًا، کمزور اور بکے سرین والا

ہونا۔ صفت (أَسْرَلُ) — مؤنث زَلَّ (ذال) — جہ۔

آزَلَّ — پھسلنا۔ لغزش کرنا۔

استنزلہ — پھسلنا۔ لغزش کرنا۔

الزَّلُّ — پھسلنے کی جگہ (مذکر و مؤنث)

الزَّلُّ — گناہ کا ارتکاب۔ پھسلنے کی جگہ۔

(مذکر و مؤنث) — فنی میزانیہ زَلَّ (ذال) — اس کی ترازویں نقصان ہے۔

الذَّلَّةُ — ذَلَّ کا اسمِ مَرَّةً — ایک مرتبہ

گرنا۔ گناہ۔ ولید دلس — خوراک جو دوست یا رشتہ دار کے دسترخوان

سے اٹھائی جائے۔ جہ — ذَلَّاتٌ۔

الزَّلَّةُ — صاف پتھر۔ واحد (زَلَّ)

الزَّلَّةُ — احسان۔ دمہ۔ مَنَاعٌ زَلَّالٌ وَزُلُوٌّ وَزَلِيلٌ وَ

زُلَا زَلَّ، صاف میٹھا، حلق سے جلد اتر جانے والا پانی۔

الزَّلَالُ — بہت پھسلنے والا۔ الزَّلِيلُ

خالدوۃ — ہلکی رفتار۔

الْأَسْرَلُ — تیز رفتار۔ ہلکے سرین والا۔

مؤنث زَلَّ (ذال) — جہ۔ سُرَّ

الْمَزَلَّةُ وَالْمَزَلَّةُ — پھسلنے کی جگہ۔

جہ۔ مَزَالٌ —

الْمُذَلِّلُ — فا۔ بہت نیکی یا سلوک کرنے والا۔

ز

زلزلہ (س) زلزلہ - پہلے کسی کے ساتھ
چھٹنا اور جدا ہونا۔

الزُّلْمَةُ - نغمہ۔

الزُّلْمَةُ - جلیبی۔

زَلَجَ (ن) زَلَجًا وَزَلْجًا وَزَلْجَانًا -
تیزی سے چلنا۔

زَلَجَ (ن) زَلَجًا وَزَلْجًا - الباب
دروازہ کو چٹختی سے بند کرنا (زَلَجَ

ن) زَلَجَانًا - فَلَانًا - آگے ہونا

زَلَجَ (س) زَلُوجًا وَزَلْجًا - پھسلنا۔

اسی سے ہے۔ مَزَلَجٌ - ج۔

مَزَلَجٌ - وہ گاڑی جو برف پر

بغیر پیہ کے چلے۔ زَلَجَ الْكَلَامُ

مِنْ فَمِهِ - بات کا منہ سے

نکل جانا۔ الْمَاءُ عَنِ الْحَجَرَةِ -

پانی کا سلق کی نالی سے پیٹ میں اتر

جانا۔

زَلَجَ - الْكَلَامُ - بات کو لوگوں میں

مشہور کرنا۔ عَيْشَتُهُ - تھوڑی سی

روزی پر زندگی گزارنا۔

تَزَلَّجَ - الشَّيْءُ - پھسلنا۔

الْيَتِيمُ - ننید چنے پر اصرار کرنا۔

- مَكَانٌ زَلَجٌ وَزَلْجٌ وَزَلْجٌ -

پھسلنے کی جگہ۔

الزَّلَاجُ - فا - مصائب سے نجات پانے

والا۔ بہت پیٹنے والا۔ سَهْمُهُ

زَلَّاجٌ - زمین سے رگڑ کھا کر جانے

والا تیر۔

الزُّوْجُ - تیز رو۔ سَهْمُهُ زُوْجٌ -

کمان سے پھسلنے والا تیر۔ قِدَاحٌ

زَلُوجٌ - ہاتھ سے پھسلنے والا پیالہ۔

الزُّلْجُ - چٹنی چٹائیں۔ نَاقَةُ

زَلْجِي وَزَلْجِيَّةٌ - تیز رواؤٹنی۔

الزَّلَاجُ وَالْمَزَلَجُ - چٹختی۔

الْمَزَلَجُ - تھوڑا۔ بخیل۔ قوم میں اجنبی آدمی

بے مروت آدمی۔ ہر چیز کا ردی حصہ۔
زَلَجَ (ف) زَلْجًا وَتَزَلَّجَ - الشَّيْءُ -

چھٹنا۔

الزَّلَجُ - باطل۔

تَزَلَّجَ - عُدَّةٌ - پھسلنا۔

زَلْجَتُهُ - علیحدہ کرنا۔

تَزَلَّجَتْ - وَازَلَّجَتْ - علیحدہ ہونا۔

الزَّلْجَةُ - کچھوا (سلفافہ سے عرف

ہے،

زَلَجَ (س) زَلْجًا - فرہ ہونا۔

زَلَجَ (ض) زَلْجَانًا وَزَلْجَانًا -

الرَّجُلُ - چلنے میں آگے بڑھنا۔

رَجُلٌ - پاؤں پھسلنا۔

زَلَجَ (ض) زَلْجًا - فَلَانًا

الرُّمَحُ - نیزہ جھونکنا۔ رَاسُهُ

الرُّمَحُ - سر زخمی کرنا۔

أَزْلَجَ - الباب - دروازہ کو بند کرنا۔

سے بند کرنا۔

تَزَلَّجَ - پھسلنا۔ مَكَانٌ زَلَجٌ وَزَلْجٌ

پھسلنے کی جگہ۔

الزُّوْجُ - تیز رو۔ يَتِيمٌ زَلُوجٌ -

پھسلنا کنواں۔

الزُّلْمَةُ - بچوں کے پھسلنے کی جگہ۔

زَلَّجَ (س) زَلْجًا - بے قرار ہونا۔

الزُّلْمَةُ وَالزُّلْمَةُ - خائلی

اسباب۔ آنے کا راستہ۔

زَلَّجَ زَلْجَةً وَزَلْجًا وَزَلْجًا -

وَزَلْجًا - اللَّهُ الْأَرْضَ

ہلانا۔ بھونچال لانا۔ خوف زدہ

کرنا۔ طَرَانًا - الْإِبِلَ - اونٹ

کو سختی سے ہانکنا۔

تَزَلَّجَتْ - الْأَرْضُ - زمین کا جنبش

میں آنا۔ زمین میں بھونچال آنا۔

الزُّلْمَةُ - بھونچال۔ ج۔ زَلْجًا

- الزَّلْجُ - مصائب و خطرات۔

الزُّلْمَةُ - ماہر نقارچی۔ سبک جوان۔

الزُّلْمَةُ - سامان خانہ۔ خائلی اسباب۔

الزُّلْمَةُ - خوش بلیع و سبک۔ سبکی۔

بڑائی جھگڑا۔

زَلَجَ (ف) زَلْجًا - الشَّيْءُ - دھوکے

سے چھین لینا۔ رَجُلٌ - پاؤں

جلانا۔ الْمَاءُ مِنَ الْبَيْتِ -

کنویں سے پانی نکالنا۔ رَاسُهُ

سر بھاڑنا۔ زَلَعْتُ لَهُ مِنْ

مَالِي زَلْعَةً - میں نے اپنے مال

میں سے ایک حصہ دیا۔

زَلَعْتُ (س) زَلْعًا وَزَلْعًا و

تَزَلَعْتُ - قَدُمُهُ - پاؤں کا

اوپر یا اندر سے پھٹنا۔ كَفَّهُ

بَاطِلًا - اوپر سے پھٹنا۔ الْجَرْحُ

زخم کا خراب ہونا۔ تَزَلَّجَ رَيْشُهُ

پروں کا جھڑنا۔

زَلَعْتُ (ن) زَلْعًا - الشَّمْسُ

سورج کا نکلنا۔ النَّاسُ - آگ کا

بلند ہونا۔

أَزْلَعَهُ - فِي الشَّيْءِ - کسی چیز کی لالچ

دلانا۔

أَزْلَعَهُ - الشَّيْءُ - دھوکے سے کسی

چیز کو چھین لینا۔ حَقُّهُ حق

کاٹ لینا۔ الشَّجَرَةُ - درخت

کاٹنا۔

الزَّلْعَةُ - خراب زخم۔

الزُّوْلُ - پھٹی ہوئی لڑیوں والا۔

الزُّيْلُ - چھوٹی کوڑیوں کی ایک قسم۔

الْمَزْلُ - بھٹے ہوئے پاؤں والا۔

زَلَعَتْ (ن) زَلْعًا - الْجَمْرُ - ستارہ

کاٹنا۔ النَّاسُ - آگ کا

بلند ہونا۔

تَزَلَّجَتْ - رَجُلٌ - پاؤں پھٹنا۔

اس کے لیے تَزَلَّجَتْ کہنا افضل ہے۔



إِذْلَقْتَ - الفَرْخُ - پوزہ کے پر نکلنا۔
الشَّعْرُ - بالوں کا مونڈنے کے

بعد نکلنا۔

ذَلَفَ (دَن) ذَلْفًا وَذَلْفًا وَذَلِيفًا وَ
تَذَلَفَ وَارْذَلَفَ - آگے ہونا۔

قریب ہونا۔

ذَلَفَ (دَن) ذَلْفًا وَرَلَفَ - الشَّيْءُ -
آگے کرنا۔ ذَلَفَ فِي الْكَلَامِ -

زیادہ کرنا۔

أَسْرَفَهُ - قَرِيبَ كَرْنًا - الْأَشْيَاءُ -
اکٹھا کرنا۔ الدِّلِيلُ الْقَوْمَ -

بہرہ کا قوم کو آگے بڑھنے پر ابھارنا۔
الذُّلْفُ وَالذَّلْفُ وَالذُّلْفِيُّ - نزدیکی

قرب - درجہ - رتبہ - قدر و منزلت -
الذُّلْفُ - باغ -

الذُّلْفَةُ - نزدیکی - درجہ - مرتبہ - رات کا
ایک حصہ - بڑا پیالہ - ج - ذُلْفٌ وَ

ذُلْفَاتٌ وَذُلْفَاتٌ - بعض کے
نزدیک الذُّلْفُ رات اور دن ملنے

کے اوقات -

الذُّلْفَةُ - بھرا ہوا پیسی - کپڑے
دھونے کا طشت - بڑا پیالہ - چکنا

پتھر - سخت یا بھرا ہوا ہوتی زمین -
باغ - ج - ذُلْفٌ -

الْمُذْلَفَةُ - گاؤں جو کشت زار، اور
بیابان کے درمیان ہو - ج -

مَذَالِفٌ - الْمَذَالِفُ - مرحلے -
کوچ کی جگہیں - واحد (مَذْلَفَةٌ)

ذَلَقْتُ (دَس) وَذَلَقْتُ (دَن) ذَلْقًا
- الْقَدَامُ - قدم پھلنا -

بِمَكَانِهِ - کسی جگہ سے اکتا کر ہٹ
جانا -

ذَلَقَهُ (دَس) ذَلْقًا وَذَلَقَهُ وَارْذَلَقَهُ -
پھلانا - عَنْ مَكَانِهِ - کسی

جگہ سے ہٹانا - دُور کرنا - رَاَسَهُ -

سرو ہونا - ذَلَقَ الْمَوْضِعَ - کسی
جگہ کو پھلنی بنانا - ذَلَقَ بَدَنَهُ -

بدن پر تیل لگانا - ارْذَلَقَهُ وَ
ذَلَقَهُ بِبَصَرِهِ - کسی پر تیز غصہ

کی نظر ڈالنا -
ارْذَلَقْتُ - الفرس - گھوڑی کا وقت

سے پہلے بچ کرنا -
تَذَلَّقَ - ایسا سو رنا کہ چہرے میں چمک

دک نظر آئے -
الذُّلْقُ وَالذَّلْقُ وَالذَّلِقُ وَالذَّلَاقَةُ -

پھلنی جگہ -
الذَّلِقُ - جلد غضبناک ہونے والا -

الذَّلَقَةُ - چکنی صاف چٹان - آئینہ
ناقہ - ذُلُوقٌ - تیز روانگی

عَقَبَةُ ذُلُوقٌ - دور دراز
گھاٹی -

الذَّلِيقُ - استقاط کا بچہ -
الذَّلِيقُ - ایک قسم کا شفتالو - واحد

(ذُلَيْقَةٌ)
الْأَذْلَقُ - نئے آگے ہوئے بالوں والا

آومی -
الْمُذْلَقُ - دروازہ کی چٹنی - قبل از وقت

بچہ گرانے والی گھوڑی -
الْمُذْلَقُ وَالْمُذْلَقَةُ - پھلنی کی جگہ -

ذَلَحَ (دَن) ذَلَحًا - خطا کرنا -
الْأَنَافُ - اکلنا - بہتر بھڑنا - الْإِنْفُ

ناک کا ٹٹا - الْعَطَاءُ - بخشش
کم دینا -

ذَلَحَ - نرم کرنا - ہموار کرنا -
الرَّحَى - چکی لٹھانا اور کناروں سے

لینا - الْعَطَاءُ - بخشش گھوڑی
دینا - عَذَا - بڑی خوراک

دینا -
ارْذَلَحَ - الشَّيْءَ - کاٹنا - جسط

سے اکھیرنا -

ارْذَلَعَمَ - ارْذَلَعَمًا - الشَّيْءَ -
سیدھا کھڑا ہونا - الْقَوْمُ - قوم

کا جلد کوچ کر جانا -
ارْذَلَعَمْتُ الصُّحْبَى - چاشت کے وقت

کا روشن ہونا -
الزَّلَمَةُ - بچہ پر کاتیر - ج - ارْذَلَمَ -

فال لینے کے تیر بن سے جاہلیت میں
عرب تقسیم کیا کرتے تھے - ایک گھاس -

الزَّلَمَةُ وَالزَّلَمَةُ وَالزَّلَمَةُ - شکل
اور قد و قامت - کہتے ہیں "هُوَ

الْعَبْدُ الزَّلَمَةُ" - وہ غلام کی طرح
معلوم ہوتا ہے -

الزَّلَمَةُ - بیڑی بکری کے کان کا کٹا ہوا حصہ
جو ٹٹکتا رہتا ہے -

ذَلُمَ مَكَّةَ - لُوطًا (عَامِي لَغَت) فصیح لفظ
الْبُلْبُلُ - ہے -

الْمُذَلَّمُ - پستہ قد - سبک بنوش طبع
(الْمُذَلَّمُ وَالْمُذَلِّمُ) - دین السہام -

عمدہ ساخت کا تیر -
الْمُذَلَّمُ وَالْأَذَلَمُ - کن کٹا -

الزَّلَمَةُ - شکر کی مادہ - پراپی بکری -
زَمَمْتُ (دَن) زَمَمًا - کس کرنا -

الْقُرْبَةُ - مشک بھڑنا - زَمَمَ
الْبَعِيرُ بِأَنْفِهِ - ناک میں تکلیف

کی وجہ سے اونٹ کا سر اٹھائے رکھنا
- الرَّجُلُ بِدَاسِهِ - سر اٹھانا

- بِأَنْفِهِ - بکھر کرنا - گرون کشی کرنا -
- الْقَوْمَ - رفتار میں قوم سے آگے

بڑھ جانا - وَزَمَمَ (دَن) الْجَهْلُ -
اونٹوں کے ٹیکل ڈالنا - زَمَمَ النُّعْلُ

جوتا میں تسمہ لگانا - الزُّنْبُ
الْمُسَخَّلَةُ - بیڑی بکری کے بچہ کو

سرو پی کر کے لے جانا -
زَمَمْتُ (دَن) زَمَمًا - الْقُرْبَةُ - مشک

کا بھڑنا - تَابَ الْبَعِيرُ - اونٹ

کے دانت پھوٹنا۔ زَمِيمًا ،
الزُّبُوسُ۔ بھڑکا بھینٹنا۔
اَزَمَّ۔ النُّعْلُ۔ جوتا میں تسمہ لگانا۔
زَامَ۔ مُزَامَةً۔ تکبر کرنا۔ زَامَمْتُ
فَلَانًا۔ مقابلہ کرنا۔
لَزَمَ۔ باندھا جانا۔
لَزَدَ۔ تکبر سے سراوٹا کرنا۔
الزُّنْبُ السَّخِلَةُ۔ بھیڑیے کا
بکری کے بچہ کو سراٹھا کر لے جانا۔
الزَّمَامُ۔ جس سے کوئی چیز باندھی جائے
یا گ۔ لُكَمٌ۔ نکیل۔ ہمار۔ ج۔
اَزَمَّ۔ زَمَامٌ النُّعْلُ۔ جوتے
کا تسمہ۔ زَمَامٌ قَوْمِيهِ۔ اپنی
قوم کا پیشوا اور چودھری۔ ”هُوَ
زَمَامُ الْأُمَرَاءِ“ وہ چیز جس پر
کام کا دار و مدار ہو۔ ”اَلْفُقُوْا رَفِيْ
يَدِيْهِ زَمَامُ الْأُمَرَاءِ“ یعنی لوگوں
نے کام کی باگ اس کے ہاتھ میں دے
دی اور اس کو مختار رکھ بنا دیا۔
الزَّمَامُ۔ فَا۔ رَجُلٌ زَامٌ۔ گھبرانے
والا آدمی۔ ج۔ زَمَمٌ۔ کہتے ہیں۔
”ذَارِي مِنْ دَارِهِ زَمَمٌ“ میرا
گھر اس کے گھر کے نزدیک ہے۔
”وَجَبَّيْ زَمَمُ بَيْتِي“۔ میرا چہرہ
اس کے گھر کے مقابل ہے۔
الزَّمَامُ۔ اونچی گھاس۔ الْأَزْمِيمُ
مہینے کے آخر کا چاند۔
زَمْتُكَ زَمَانَةٌ وَنَزَمْتُ مَعَزَ
اور باوقار ہونا۔ صفت (زَمِيْتُ)
ج۔ زَمَتَاءُ وَزَمِيْتُ)
زَمَتَاءُ (دَف) زَمَتَا۔ گلا گھونٹنا۔
زَمَجَ (دَف) زَمَجَا۔ الْقَرْبَةَ۔ مشک بھڑنا
— عَلِيْهِ سَلَامٌ۔ دعوت میں بے اجازت
آکر کھانا۔
هَجَرَ دَسَ زَمَجًا۔ غضبناک ہونا۔

صفت (زَمَجَ)
الزَّمَجُ۔ سرخ رنگ کا ایک شکاری پرندہ
ج۔ زَمَا مَيْجُ۔ زَمَجُ الْمَاءِ
ایک مچھلی خور آبی پرندہ۔
الزَّمَجِيّ۔ پرندہ کی دم کی جڑ۔
زَمَجَتَ۔ الظِّلِيحُ۔ شتر مرغ کی چوچ
”اَخَذَهُ يَزَامَجِهِ“ اس نے تمام
کا تمام ہی لے لیا۔
الْمُزْمَجُ۔ غضبناک۔
زَمَجَرُ زَمَجَرَةً۔ بہت شور مچانا۔
(— وَتَزْمَجَرُ) الْأَسَدُ۔ شیر کا
دھاڑنا۔ دھونکنا۔
(زَمَجَرُ) آواز کرنا۔
الزَّمَجَرَةُ۔ بانسری۔ ہر چیز کی آواز۔
ج۔ زَمَاجِرُ وَزَمَاجِيْرُ۔
الزَّمَجُ وَالزَّمَجُ۔ کمینہ۔ پست قدم
بد شکل۔ سیاہ رنگ، شریہ۔
الزَامَجُ۔ بھڑا۔
زَمَجَ (دَف) زَمَجًا۔ تکبر کرنا۔ صفت
د زَامَجُ۔ ج۔ زَمَجُ۔
زَمَجَرُ۔ الْيَمْرُ۔ غصہ میں پیتے کا
دھاڑنا۔ الْعَشْبُ۔ شگوفہ
والا ہونا۔ بڑھنا۔ (— وَزَمَجَرُ)
الصَّوْتُ۔ آواز کا تیز ہونا۔
تَزْمَجَرُ۔ الْيَمْرُ۔ چیتے کا غصہ سے
روکنا۔ دھاڑنا۔
الزَّمَجَرُ۔ بڑی بانسری۔ گنجان و گھنا
درخت۔ (رَجُلٌ زَمَجَرٌ)۔ بلند نشان
کا آدمی۔ (— وَالزَّمَجَرِيُّ) کھوکھلی
ٹڈی۔
زَمَجَرَةُ۔ الشَّبَابُ۔ بھری جوانی۔
— الشَّجَرُ۔ درخت کا گنجان ہونا
زَمَرَ دَسَ (دَف) زَمَرًا وَزَمِيرًا۔ بانسری
بجانا۔ بِالْحَدِيثِ۔ بات بھیلانا
(— زَمَرًا) الْقَرْبَةَ۔ مشک

بھڑنا۔ فَلَانًا بِفَلَانٍ۔ آسانا
بھڑکانا۔
زَمَرَ دَسَ زَمَرَانًا۔ الکلبی۔ ہرن
کا ڈر کر بھاگنا۔ چکنا۔ (— زَمَرًا)
النَّعَامُ۔ شتر مرغ کا آواز کرنا۔
زَمَرَ دَسَ (دَف) زَمَرًا۔ تھوڑے بالوں والا
ہونا۔ بے مروت ہونا۔
زَمَرَ۔ بانسری بجانا۔ الْقَرْبَةَ۔
مشک بھڑنا۔
اَزَمَرَ۔ غصہ سے سرخ آنکھوں والا ہونا۔
اِسْتَزَمَرَ۔ الرَّجُلُ عِنْدَ الْهَوَانِ
ذلت کی وجہ سے منقبض ہونا۔
الزَّمَرُ۔ (— وَالزَّمَرُ) آواز
ج۔ زَمُوسُ۔
الزَّمَرُ۔ بانسری بجانے والا۔ غِنَاءُ
زَمَرٍ۔ اچھا گانا۔ کم بالوں یا دون
والا۔ کم مروت والا۔ مَوْنُثُ زَمَرَةٍ
عَطِيَّةٌ زَمَرَةٍ۔ تھوڑی بخشش۔
الزَمَارُ۔ شتر مرغ کی آواز۔
الزَمَرُ۔ کرخت آواز۔
الزَمِيرُ۔ پستہ قدم۔ ج۔ زَمَارٌ
(— وَالزَمُوسُ) حَسَنٌ لَطَا۔
غِنَاءُ زَمِيرٍ۔ اچھی راگ۔
الزَمِيرُ وَالزَمِيرُ۔ ایک قسم کی مچھلی۔
الزَمَارُ۔ بانسری بجانے والا۔
الزَمَارَةُ۔ بانسری۔ زَمَارَةُ الزَّارِعِي۔
ایک نبات۔
الزَمَرَةُ۔ گروہ۔ جماعت۔ فوج۔ ج۔
زَمَرٌ۔
الزَمَرُ۔ جماعت۔ خوبصورت لڑکا۔
الزَمَارَةُ وَالزَمُودَةُ۔ مروت کی کمی۔
الزَمَارَةُ۔ بانسری بجانے کا پیشہ۔
الْمِزْمَارُ۔ بانسری۔ (— الْمِزْمُوسُ)
وَالْمِزْمُوسُ، گیت۔ ج۔ مَزَامِرُ
مِزَامِيرُ دَاوُدُ۔ حضرت داؤد



علی نبینا وعلیہ السلام کی دعا۔ اسی کے مجموعہ کو زبور کہتے ہیں۔
 الزُّمُّرُودُ وَالزُّمُّرْدُ۔ ایک گہرے سبز رنگ کا پتھر واحد (زُمُرْدَةُ) زَمُورٌ۔ الیوغاءُ۔ برتن کو اچھی طرح بھرنے کے لیے ہانا۔
 زَمَزَمٌ۔ زَمَزَمَةٌ۔ الشیءُ۔ دور سے آواز کی لگنا بہت سنائی دینا۔ النارُ۔ آگ کے بھڑکنے کی آواز سنائی دینا۔ الْمُعْتَنَى۔ گویے کا سر سے گانا۔
 زَمَزَمَةٌ۔ بکھری ہوئی شے کو جمع کرنا۔ الشیءُ۔ حفاظت کرنا۔
 تَزَمَزَمَ۔ الْجَمَلُ۔ اونٹ کا بڑبڑانا۔ تَزَمَزَمَتْ بِهِ شَفَقَاتُکَ۔ ہونٹوں کا ہلنا۔ مَاءُ زَمَزَمٍ وَ زَمَامٌ وَ زَمَزَمٌ۔ بہت پانی، کچھ کھا۔ پانی، لٹلا پانی۔ زَمَزَمٌ۔ کعبہ شریف کے نزدیک ایک کنویں کا نام۔
 الزَّمَزَمَةُ۔ بادل کی گرج۔ آگ کے بھڑکنے کی آواز بشیر کی دھاڑ۔ جہ زَمَزَمٌ۔
 الزُّمُورُومُ وَالزُّمُزِیْمُ۔ مِنَ الْإِبِلِ۔ عمدہ اونٹ۔ اونٹوں کا ریوڑ یا گلد۔ جہ۔ زَمَزَمٌ۔
 الزُّمُزِمَةُ۔ اونٹوں یا آدمیوں کا گروہ۔ جہ۔ زَمَزَمٌ وَ زَمَزِمٌ۔
 زَمَعَ (دس) زَمَعًا۔ مثلاً۔ حیران ہونا۔ خوف سے مبہوت ہونا۔
 زَمَعَ (دس) زَمَعًا وَ زَمَعَانًا۔ الْأَرْنَبُ۔ خرگوش کا تیز چلنا۔ آہستہ آہستہ چلنا۔
 أَزَمَعَ وَ زَمَعَ۔ الْأَمْرُ وَ عَلَیْہِ وَیْلٌ۔ پختہ ارادی کے ساتھ کسی پر جے رہنا۔
 وَ زَمَعَ الْکَرْمُ۔ الْکُورُ کی بیل کا

گرہ دار اور کھدرا ہونا۔ زَمَعَ الزُّبُورُ۔ بھڑکا بھینسانا۔
 أَزَمَعَتِ الْأَرْنَبُ۔ ہلکا پھلکا ہونا اور تیز دوڑنا۔
 الزَّمَمُ۔ چھوٹی تنگ نالیاں۔ رذیل لوگ۔ انکور کی شاخوں کی گریں۔ کمزور سیلاب۔ انگلیوں کی زیادتی۔ بے قاری کام کے شروع کی کپکپی۔ جہ۔ أَزَمَاعٌ (دس) وَالزَّمَاعُ۔ پختہ ارادہ۔
 الزَّمْعَةُ۔ لُکڑا۔ کہتے ہیں "أَرْضٌ فِیْہَا زَمْعَةٌ مِنَ النَّبْتِ" یعنی زمین میں گھاس کا قطعہ ہے۔
 الزَّمْعَةُ۔ جہ۔ زَمَعٌ وَ زَمَاعٌ۔ ہرن یا بکری وغیرہ کے پاؤں کے پچھلے رخ میں بٹکے ہوئے بال۔ جہ۔ أَزَمَاعٌ۔ چھوٹا ٹیلہ۔
 الزَّمْعِیُّ۔ خسیس۔ جلدی غصہ میں آ جانے والا۔
 الزَّمْعُ۔ بے ڈنک والی بھڑ۔ وہ شخص جو اپنی ضروریات میں جست نہ ہو۔
 الزَّمِیْعُ۔ کچے ارادہ والا بہادر۔ اچھی رائے والا۔ (دس) وَالزَّمُوعُ۔ تیز رفتار۔
 الْأَسْرَمُ۔ ہوشیار۔ دانا، چالاک۔
 نَابِئِدَامُ۔ جہ۔ أَزَامِعُ۔ رَجُلٌ أَزَمَعٌ۔ زاید انگلی والی آدمی۔
 الْمَزْمُوعُ۔ ثابت قدم پختہ ارادہ والا آدمی۔
 زَمَقَ (دس) زَمَقًا۔ الْقُفْلُ۔ تالا کھولنا۔
 الْحَبِیْبَةُ۔ وَارِضِیٰ لَوْ جِئْنَا عَفَتْ زَمِیْقَتُهُ وَ مَزْمُوقَتُهُ، کہتے ہیں "مَا أَغْنَىٰ عَنْکَ زَمَقَتُکَ" اس نے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔

زَمَكَ (دس) زَمَكًا۔ چپ رہنا۔
 وَ زَمَكَ، الْقَوْبَةُ۔ مُشْکُ بھڑنا زَمَكَةُ عَلَیْ۔ اس نے اس کو بھڑکا کر مجھ پر سخت غضب ناک کر دیا۔
 إِزْمَاکُ۔ سخت غضب ناک ہونا۔
 الزَّمَاکُ۔ سخت غصہ۔ ایک دوسرے میں گھس جانا۔
 الزَّمَاکَةُ۔ مِنَ الْبِجَالِ۔ جلد غصہ ہو جانے والا۔ احمق۔ پستہ قد۔ جہ۔ الزَّمَاکُونُ۔
 الزَّمَاکُ وَالزَّمَاکُ۔ پزندہ کی دم یا اس کی جڑ۔
 زَمَلَ (دس) زَمَالًا۔ الْأَعْرَجُ۔ لنگڑے کا ایک طرف جھکے ہوئے دوڑنا۔
 زَمَلْتُ (دس) زَمَلًا وَ زَمَالًا وَ زَمَلَانًا۔
 الدَّابَّةُ۔ خوشی کی وجہ سے لنگڑاتے ہوئے چلنا۔ (دس) زَمُولًا، الْقَوْسُ۔ کمان کا آواز کرنا۔
 زَمَلًا (دس) الرَّفِیقُ۔ ساتھی کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھانا۔ الدَّابَّةُ۔ اٹھانا۔
 زَمَلَ۔ الشیءُ۔ چھپانا۔
 الشیءُ یَتَوَلَّیہُ أَوْ فِی شَوْبِہِ۔ کپڑے میں لپیٹنا۔
 زَمَلَ۔ الدَّفِیقُ۔ ساتھی کو محل کے ایک جانب سوار کرنا۔
 تَزَمَلَ وَ إِزَمَلَ وَ إِزَمَلَ۔ یَتَوَلَّیہُ لپیٹنا۔
 الزَّمَلُ۔ ردیف۔ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ بوجھ۔
 الزَّمَلُ وَالزَّمَلَةُ وَالْأَسْمَلَةُ۔ بال نیچے۔
 الزَّمَلُ وَالزَّمَلُ وَالزَّمَلُ وَالزَّمَلَةُ وَالزَّمَلُ وَالزَّمَلُ وَالزَّمَلُ۔

وَالزُّمَيْلُ وَالزُّمَيْلَةُ - کمزور۔
بزدل۔

الزُّمْلَةُ - ساتھی لوگ۔ جماعت۔
الزُّمْلَةُ - مؤنث الزَّامِلُ - بار
برداری کا جانور۔ لکڑو جانور۔ جہ۔
زَوَامِلُ -

الزُّمَيْلُ - روایت۔ آج کل ہم پیشہ کو
کہتے ہیں۔

الْأَرْسُ مَلٌ - مخلوط آواز۔ جہ۔ آ زَامِلُ
وَأَزَامِيلُ - تمام۔ کہتے ہیں۔ أَخَذَ
الشَّيْءَ بِأَزْمَلِهِ وَبِأَزْمَلِهِ اس
نے ساری چیز لے لی۔

الْأَزْمَلُ - ڈرپوک۔ کمزور۔ بزدل۔
الْأَزْمَلَةُ - کمان کی آواز۔ تمام۔ لکڑ
عِمَالُ الْأَزْمَلَةِ - یعنی اس کے
بال بچے بہت ہیں۔

الْأَزْمُولَةُ وَالْأَزْمُولَةُ - آواز گھنٹے
والا پہاڑی بکریا ہرن وغیرہ۔

الْأَزْمِيلُ - موچی کی راہی۔ چھینی۔

سہوڑا۔ مضبوط آدمی۔ کمزور (ضد)
الْمَزْمَلُ وَالْمَزْمَلُ - کپڑوں میں

لیٹا ہوا۔

الْمَزْمَلَةُ - مؤنث الْمَزْمَلُ - پانی
ٹھنڈا کرنے کا گھڑا یا مٹکا۔

زَمِنَ (دس) زَمَنًا وَزَمَنَةً - لُجْنِ
ہونا۔

أَزْمَنَ - الشَّيْءُ - دیر تک باقی

رہنا۔ هُ الْبَلَى - نیچے پن میں

بتلا کرنا۔ بِالْمَكَانِ - کسی جگہ

مدت تک اقامت کرنا۔

الزَّمَنُ - جہ۔ أَرْمَانٌ وَأَرْمَنُ -

وَالزَّمَانُ - جہ۔ أَرْمَنَةُ وَ

الزَّمَنَةُ - وقت۔ ازمنا

السَّنَةُ - سال کی چار فصلیں۔ بہار
گرمی۔ برسات۔ جاڑا۔ زَمَنُ

زَامِنٌ - سخت زمانہ۔

الزَّمَانَةُ - آفت، بعض اعضاء کا نہ ہونا
قوی کا بیکار ہونا۔ محبت۔

الزَّمِنُ - جہ۔ زَمِنُونُ وَ (الزَّمِينُ)

جہ۔ زَمَنِي وَزَمَنَةُ - لُجْنِ۔

معطل اعضاء والا۔ اعضاء سے اپنا بچ

عَامِلَةٌ مَزَامَنَةُ - اس نے اس

سے کچھ وقت کے لیے معاملہ کیا۔

الْمُزْمِنُ - فَا - مَرَضٌ مُزْمِنٌ - پرانا

مرض۔ دیرینہ بیماری۔

زَمِيَّةُ (دس) زَمِيَّةٌ - الْخَشْرُ - گرمی

کاتیز ہونا۔ الرَّجُلُ بِالْخَشْرِ -

کسی کو گرمی بہت لگنا۔

زَمِيَّةُ (دس) زَمِيَّةٌ - الشَّمْسُ

الرَّجُلُ - کسی کو بہت دھوپ لگنا۔

زَمِيَّةُ - الْعَيْنُ - غصہ سے آنکھ

کا سرخ ہو جانا۔

أَزْمَهَرُ - الْيَوْمُ - دن کا سخت سرد

ہونا۔ الْوَجْهَةُ - پھرے کا

تیوری والا ہونا۔ الْكَوَاكِبُ

ستاروں کا چمکنا۔ الْعَيْنُ

آنکھ کا غصہ سے سرخ ہونا۔

الزَّمْهَرِيُّ - سخت ٹھنڈ۔

الْمَزْمَهَرُ - سخت غصہ والا ہنسنے والا۔

أَزْمَهَلٌ - الْبَطْنُ - بارش برسنا

۔ الشَّلَجُ - برف کا پھل کر ہونا۔

زَمَنَ (دس) زَمَنًا - عَصْبَةُ - پٹھے کا

خشک ہونا۔ الرَّجُلُ - جوڑوں

کا ڈھیلا ہونا۔ زَمَنًا وَأَزْمَنًا

بَخِيرٌ أَوْ شَرٌّ - اچھا یا برا لگان

کرنا۔ بَلَدًا - متم کرنا۔

زَمَنَ - الرَّجُلُ - ہمیشہ ماش کھانا۔

الزَّمَنُ - ماش۔

الزَّمَنُ - تنگ۔ مَاءُ زَمَنٍ

تھوڑا پانی۔ طَلٌّ زَمَانٌ - تھوڑا

سایہ۔ حَنْطَلَةُ زَمَنَةٍ - وہ

گیہوں جس کو بارش کے علاوہ پانی

دیا گیا ہو۔ بَدِيتُ کا گیہوں۔

الزَّيْلِيُّ - پشیاں پاخانہ روکنے والا۔

زَنَاءُ (دس) زَنَاءٌ وَزَنَوُا - رَابِعُ

پناہ لینا۔ فِي الْجَبَلِ - پہاڑ پر

چڑھنا۔ الْخَطْلُ - سایہ کا سگڑنا

۔ الرَّجُلُ - خوش ہونا۔ جلدی کرنا۔

زَمِنَ سَے چمٹ جانا۔ بُولُكَةُ زَمَنًا

پشیاں روک لینا۔ بُولُكَةُ زَمَنًا

پشیاں کا رک جانا۔

زَنَاءٌ - عَلَيْهِ - تنگی کرنا۔

أَزْنَاءُ - إِسْرَاءُ - مجبور کرنا۔ چڑھنا۔

بند کر دینا۔

الزَّنَاءُ - پستہ قد۔ پشیاں روکنے والا

تنگ۔ قہر۔

الزَّنِي - چھوٹی مشک۔

زَمِنَ (دس) زَمَنًا - فربہ ہونا۔

الزَّنِي - موٹا پستہ قد۔

الزَّنِي - بزدل، ایک خوشنما خوشبودار

درخت۔

الزَّنِي - آہستہ چال۔

زَنَابِلَةُ - الْحَقْدُ - بچھو کا ڈنک۔

تَزَنَبَرُ - عَلَيْهِ - تکر کرنا۔ تیوری

چڑھنا۔

الزَّنِي - شہیر۔

الزَّنِي - بھڑ۔ جہ۔ زَنَابِلُ

واحد (زَنَابِلَةُ) - (دس) (الزَّنِي)

پھرتیلا۔ خوش طبع۔ حاضر جواب۔

الزَّنِي وَالزَّنِي - بھڑ۔ ایک


درخت۔

الزَّنِي - بھاری بھر کم آدمی۔ بڑی

کشتی۔ اَرْضٌ مُزْبَدَةٌ - بہت

بھڑوں والی زمین۔

الزَّنِي - گھڑی کا اسپرنگ۔ یہ



فارسی کلمہ ہے۔ اس کے لیے النابض کا کلمہ وضع کیا گیا ہے۔

الزُّنْبَاعَةُ - مونے یا جوتے کی نوک۔

الزُّنْبُقُ - سفید سوسن یا چمبیل۔ واحد۔

(زَنْبَقَةُ) چمبیل کا تیل۔ پانسری۔

ج۔ زَنْبَقٌ - اُمّ زَنْبِقٍ - شراب۔

الزُّنْبَاقُ - ایک قسم کا پودا۔

الزُّنْبُلُ - پستہ قد آدمی۔

تَزْنَنُ - مثک کر چلنا۔ مغرورانہ چال چلنا۔

الزُّنْزَرَةُ - تنگی۔ تنگ حالی۔

زَنْجِدُ (دس) زَنْجَا - پیاس سے آنتوں کا سکرنا۔

زَا نَجَحَ - اچھا یا برابر ملنا۔

تَزْنَجُ - علیہ۔ دست درازی کرنا۔

الزُّنْجُ وَالزُّنْجُ - حبشی۔ واحد (زَنْجِيٌّ) ج۔ زَنْجِيٌّ۔

الزُّنْجِيلُ - شراب۔ سونٹھ۔

زَنْجَرٌ - انگوٹھے کا ناخن۔ انگلی کے ناخن سے توڑنا۔

الزُّنْجَارُ - تانبہ کا زنگار۔

الزُّنْجِيرُ وَالزُّنْجِيرَةُ - جرانوں کے ناخنوں کی سفیدی۔ ناخن کا کٹا ہوا حصہ۔ زنجیر۔

الزُّنْجَفَرُ وَالزُّنْجَفَرَةُ - شنگرف۔

زَنْحَهُ (دفع) زَنْحًا - تعریف کرنا۔ دفع کرنا۔ معاملہ میں تنگی کرنا۔

زَا نَحَدَ - ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔

زَنْحٌ وَتَزْنَحُ - المَاءُ - پانی بار بار پینا۔

وَتَزْنَحُ الْمَجْلُ - کھل کر گفتگو کرنا۔ اپنے آپ کو مرتبہ سے زیادہ ظاہر کرنا۔ قرض یا کسی اور معاملہ میں تنگ کرنا۔

زَنْخٌ (دس) زَنْخًا - الدُّهْنُ - متغیر ہونا۔ خواب ہونا۔ صفت۔ (زَنْخٌ) زَنْخٌ (دس) زَنْخًا - المَقْرَدُ۔

چیمڑی کا چمٹ جانا۔

زَا نَحَدَ - ایک دوسرے کو دفع کرنا۔

تَزْنَحُ - تکر کرنا۔ کھل کر بات چیت کرنا۔

زَنْخَرٌ - بے خبری۔ خولے لینا۔

زَنْدَنُ (دس) زَنْدًا - الإِنَاءُ - برتن بھرنا۔ الناس - چقائق سے آگ نکالنا۔

زَنْدُ (دس) الرَّجُلُ - آدمی کا پیاسا ہونا۔

زَنْدٌ - جھوٹ بولنا۔ چقائق سے آگ نکالنا۔

السِّقَاءُ - مشک بھرنا۔

فِي الْأُمْرِ - تنگ دل ہونا۔ علیٰ أَهْلِهِ - اپنے اہل پر تنگی ڈالنا۔

أَزْنَدَ - الشَّيْءُ - زیادہ ہونا۔

الرَّجُلُ فِي رَجْعِهِ - آدمی کا پھر لوٹ کر بھار ہو جانا۔

تَزْنَدَ - غضب ناک ہونا۔ جواب نہ دے سکتا۔ کہتے ہیں: سَأَلْتُهُ مَسْئَلَةً فَتَزْنَدَ - میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکا۔

فِي أَمْرٍ كَذَا - تنگ دل ہونا۔

الزُّنْدُ - ہاتھ کا گٹا۔ چقائق کی اوپر کی کڑی۔ نیچے والی کو (الزُّنْدَةُ) کہتے ہیں اور ہرد کو (الزُّنْدَانِ) بولتے ہیں۔ ج۔ زَنْدٌ وَآزَنْدٌ وَآزَنْدٌ - کہتے ہیں: فَلَانٌ دَارِيٌّ الزُّنْدُ - فلان کا میاب و بامراد ہے۔

"فَلَانٌ كَالْفِي الزُّنْدِ" - فلان ناکام ہے۔ "هَمَّا كِزْنَدَانِ" وہ دونوں برائے ہیں، اور یہ خُصَّاسَت و ذَمَّات میں مساوات کے لیے بولا جاتا ہے اور بس۔

الْمُزْنَدُ - تنگ، بخیل، کنجوس، متبہی۔

کے چوڑے اور اسے عَطَاءُ مُزْنَدٌ۔

تھوڑی بخشش۔

تَزْنَدَقِي - بے دین ہونا۔ بد اعتقاد ہونا۔

صفت (زَنْدِيٌّ) ج۔ زَنْادِقَةُ وَزَنْادِيٌّ۔

الزُّنْدَقَةُ - باطن میں کفر ظاہر میں ایمان۔

رَجُلٌ زَنْدَقٌ وَزَنْدَقِيٌّ۔

بہت کنجوس، کمپی چوس۔

زَنْدَنُ (دس) زَنْدًا - الإِنَاءُ - برتن بھرنا۔ العَلَامُ - رٹ کے کو جنبیو پھنانا۔

زَنْدَرٌ - إِلَى بَعِيْنِهِ - گھور کر دیکھنا۔

تَزْنَرُ - زَنْارَ پھننا۔ جنبیو پھننا۔ باندھنا۔

الشَّيْءُ - باریک ہونا۔

الزُّنَارُ - ج۔ زَنْانِيرُ وَدَالِ الزُّنَادَةِ (جنبیو)۔

الزُّنَانِيرُ - چھوٹی ٹنگریاں۔

زَنْفٌ (دس) زَنْفًا وَتَزْنَفُ - غضبناک ہونا۔

زَنْقٌ (دس) زَنْقًا وَزَنْقٌ - الفَرْسُ - گھوڑے کے جڑے کے نیچے تسمہ لگانا۔ البَعْلُ - بھڑکی۔

طانگوں میں پائے بند باندھنا۔ د۔

وَزَنْقٌ دَا زَنْقٌ (علیٰ آؤ کا دم)۔

فقر یا بخل کے باعث اولاد پر خرچ میں کنجوسی کرنا۔

الزُّنْقُ - نیزے کی نوک۔ گھوڑے کا پتلا۔

جڑا جہاں تسمہ باندھتے ہیں۔ ج۔

زَنْوَقٌ۔

الزُّنْقَةُ - تنگ کو چیر۔

الزُّنَاقُ - رسی یا تسمہ جو گھوڑے کے پیچے جڑے کے نیچے باندھا جاتا ہے۔

بھڑکا پائے بند۔ گوبند (ایک زیور)۔

ج۔ زَنْقٌ۔

الزُّنَاقَةُ - گھوڑے کے جڑے کے نیچے کی رسی کا حلقہ یا کڑی۔

الزُّنْفِيُّ - محکم مضبوط۔ راسی زَنْفِيٌّ۔

www.waseemziyai.com

<p>صائب رائے۔ المزئوق۔ بند پیشاب والا۔ زَنَمَ۔ لہذا الخصم۔ مقابلہ کے لیے بھیجا۔ الزئمة۔ کان کا حصہ جو کاٹا جاتا ہے۔ اور نکلتا رہتا ہے۔ حلق کے نیچے کا ٹکٹا ہوا گوشت، نشان، علامت۔ الزئح۔ من الجبال۔ یعنی الزئح۔ مؤنث۔ زَنَمَاءُ۔ ج۔ زَنَمٌ۔ الزئح۔ من الجبال۔ یعنی الزئح۔ مؤنث۔ زَنَمَاءُ۔ ج۔ زَنَمٌ۔ الزئح۔ مصیبت۔ الزئح۔ لیم، کمینہ، منبول بیٹا۔ والمزئح۔ قوم میں آجانے والا۔ اجنبی آدمی جس کی قوم محتاج ہو۔ زَنَادَن، زَنُوًّا۔ تنگ ہونا۔ صفت۔ زَنِي، زَنِي تَزْنِيَةً۔ علیہ۔ تنگ کرنا۔ زَنِي رَض، زَنِي وَزَنَاءُ وَزَانِي مُزَانَاةً وَزَنَاءً۔ زنا کرنا۔ صفت (زَانٍ)۔ ج۔ زَنَاءَةٌ۔ صفت۔ مؤنث (زَانِيَةٌ)۔ ج۔ زَوَانٍ۔ زَنِي۔ کسی کی طرف زنا کی نسبت کرنا کسی کو زانی کہنا۔ أَزْنَاكَ إِزْنَاءً۔ زنا پر کسانا، اچھارنا۔ الزَنَاءَةُ۔ بہت زنا کار۔ بندریا۔ زَنَ۔ واہ۔ خوب، بہت اچھا۔ زَهْدٌ وَزَهْدَانٌ۔ وَزَهْدٌ۔ دک (زَهْدٌ) وَزَهْدَانٌ۔ الشيء وَعَنْهُ۔ بے رغبتی سے۔ کسی چیز کو چھوڑ دینا اور اسی سے ہے۔ ”زَهْدٌ فِي الدُّنْيَا“ یعنی اس نے دنیوی خواہشات کو ترک کر کے اپنے کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا۔ صفت فاعلی (زَاهِدٌ) صفت</p>	<p>مفعولی (مَزْهُودٌ) فِيهِ وَعَنْهُ۔ زَهْدٌ زَهْدًا۔ التَّخْلَعُ۔ درخت خرم پھولوں کا اندازہ لگانا۔ زَهْدَةٌ۔ فِي الشَّيْءِ وَعَنْهُ۔ پرہیز کرنا۔ رغبت ترک کرنا۔ تَزَهَّدَ۔ عبادت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دینا۔ تَزَاهَدَ۔ القوم۔ فَلَانًا کسی کی حقارت کرنا۔ إِزْدَهَدَ۔ الشَّيْءُ۔ متھوڑا خیال کرنا۔ حقیر شمار کرنا۔ کہتے ہیں۔ ”خُذْ زَهْدًا مَا يَكْفِيكَ“ بقدر کفایت لو۔ الزُّهْدُ وَالزَّهَادَةُ۔ کسی شے سے بے رغبتی، روگردانی۔ الزُّهْدُ۔ زُكَاةٌ۔ ج۔ زَهَادٌ۔ أَرْضُ زَهَادٍ۔ پانی پی جانے والی زمین۔ الزَّاهِدُ۔ خا۔ آخرت کی محبت میں تارک دنیا۔ تنگ خو۔ ج۔ زُهْدٌ وَزَهَادٌ وَزَاهِدُونَ۔ الزَّهِيدُ۔ کم، حقیر، مؤنث۔ زَهِيدَةٌ۔ ”هُوَ زَهِيدٌ الْعَيْنُ“ وہ قانع ہے۔ وہ تھوڑے پر صبر کرتا ہے۔ ج۔ زُهْدَانٌ۔ الزَّهِيدُ۔ بہت بے رغبتی کرنے والا۔ الْمُزْهَدُ۔ کم مال والا۔ زَهْرَدَف (زُهْرَدَا)۔ السِّرَاجُ أَوِ الْقَمْرُ أَوِ الْوَجْهُ۔ چرخ یا چاند یا چہرے کا چکنا۔ روشن ہونا۔ الشيء۔ صاف رنگ ہونا۔ الزُّنْدُ۔ چمقنا سے آگ نکلنا۔ کہتے ہیں ”زَهْرَتُ بَيْكٍ وَنَادِي“ او نادی۔ تمھاری وجہ سے مجھ کو قوت و عزت نصیب ہوئی۔ زَهْرَدَس (زَهْرَا وَزَهْرَدَك)</p>	<p>زُهْرَوْرَةٌ۔ الرَّجُلُ۔ حسین و بارونق ہونا۔ أَزْهَرَ۔ النَّبَاتُ۔ پودہ کا شکوفہ دار ہونا۔ النَّاسُ۔ آگ جلانا۔ إِزْدَهَرَ۔ روشن ہونا۔ چکنا۔ بالامر۔ حفاظت کرنا۔ دل میں رکھنا۔ إِزْهَرُوا زَهَارًا۔ النَّبَاتُ۔ پودہ کا شکوفہ نکالنا۔ کلی کرنا۔ تَزَاهَرَ۔ السِّرَاجُ وَنَحْوُهُ۔ چراغ وغیرہ کا چکنا۔ روشن ہونا۔ الزُّهْرُ وَالزَّهْرُ۔ کلی۔ شکوفہ۔ واحد (زَهْرَةٌ وَزَهْرَةٌ)۔ زَهْرَةُ الدُّنْيَا۔ دنیا کی رونق و خوبی۔ دنیا کی ظاہری ٹیم ٹام۔ ج۔ أَزْهَرُ وَأَزْهَارٌ وَزَهْوَرٌ۔ وجہ۔ أَزَاهِرٌ وَأَزَاهِيرٌ۔ زَهْرُ النَّوْرِ۔ تاش (کلمہ موکدہ)۔ الزُّهْرُ وَالزَّهْرَةُ۔ حاجت۔ ضرورت۔ الزُّهْرُ۔ ماہ قمری کی پہلی تین راتیں۔ الزَّهْرَةُ۔ خوبصورتی، حسن و جمال۔ الزَّهْرَةُ۔ ایک سیاہ ستارہ۔ الزَّاهِرُ۔ خا۔ خوشنما پودہ۔ چمک دار رنگ والا۔ أَحْمَرُ زَاهِرٌ۔ گہرا سرخ۔ الزَّاهِرِيَّةُ۔ نازکی چال۔ الْأَزْهَرُ۔ روشن، صاف رنگ والا۔ چمکیلے چہرہ والا۔ چاند۔ جنگلی بیل۔ مؤنث۔ زَهْرَاءُ۔ ج۔ زَهْرٌ۔ الْأَزْهَرَانِ۔ سورج و چاند۔ الزَّهَارُ۔ بہت چمکیلا۔ الْمُزْهَرُ۔ سارنگی۔ ج۔ مَزَاهِرُ الْمُزْهَرُ۔ خا۔ معافد کے لیے آگ جلانے والا۔ ممان نواز۔ زَهْرَفَ۔ الشَّيْءُ۔ کھوٹا بنانا۔ زَهْنَقُ۔ الرَّجُلُ۔ بہت ہنسنا۔</p>
---	---	--

زَهَفَتْ الْأُمُّ وَلَدَهَا. مال کا بچہ کو اچھالنا۔ کدانا۔
 الزَّهْقُ۔ لُئِمَ، کینہ۔
 زَهَفَتْ (ف) زَهُوفًا۔ الرَّجُلُ۔ ذیل ہونا۔ ہلاک ہونا۔ جھوٹ بولنا۔
 الْمَوْتُ أَدَّى إِلَى الْمَوْتِ۔ قریب المرگ ہونا۔
 زَهِفَتْ (س) زَهْفًا۔ لِلشَّيْءِ۔ جلدی کرنا۔ چشتی کرنا۔
 أَزْهَفَ۔ إِلَيْهِ الطَّعْنَةُ۔ قریب کرنا۔ أَزْهَقْتُ الطَّعْنَةُ مَوْتَ کے قریب پہنچا دینا۔ أَزْهَفَ عَلَى الْجَوْرِ ج۔ حملہ کر کے زخمی کا کام تمام کر دینا۔ الرَّجُلُ۔ جھوٹ بولنا۔ خیانت کرنا۔ چھٹی کھانا
 شَرَّكَ لُطْفَ جَلْدِي كَرْنًا۔ خَلَا نًا۔ ذیل کرنا۔ کسی کے ساتھ برائی کرنا۔
 هَلَاكَ كَرْنًا۔ الشَّيْءُ۔ ڈھیلا کرنا۔ جلدی کرنا۔ لے جانا۔ خراب کرنا۔
 كُ يَا الشَّيْءَ۔ برائی پر ورغلانا۔
 بِمَا طَلَبْتَهُ۔ پورا کرنا۔
 يَا لَشَيْءٍ۔ تعجب کرنا۔ الْخَبَرُ۔ خبر میں زیادتی کرنا۔ لَهُ حَدِيثًا۔ جھوٹ کنا۔ لَا لِيَمْرٍ حَدِيثًا۔ کسی کی طرف رومی بات کی نسبت کرنا۔
 لَزَّهَفَتْ۔ الدَّابَّةُ۔ ماروغیرہ کی وجہ سے کودنا۔
 تَزَهَفَتْ۔ عَنَهُ۔ اعراض کرنا۔
 لَزَّهَفَتْ۔ إِلَى الْمَوْتِ۔ موت کے قریب ہونا۔ عِنْدَ اعراض کرنا۔
 الشَّيْءُ۔ مائل ہونا۔ انحراف کرنا۔ جلدی کرنا۔ ہلاک کرنا۔ كُ الدَّابَّةُ۔ جانور کا کسی کو گرا دینا۔
 الشَّيْءُ وَبِهِ۔ لے جانا۔
 الْعَدَاوَةُ وَبِهَا۔ دشمنی اختیار

کرنا۔ الْحَمَلُ۔ بوجھ اٹھانا۔
 خَلَانٌ۔ شَرِّیں پڑنا۔ کلام میں زیادتی کرنا۔ فِي كَلَامِهِ۔ سختی کرنا۔ آواز اونچی کرنا۔
 زَهَقَ (ف) زَهُوقًا۔ الْعَظْمُ۔ ہڈی کا گوڑے دار ہونا۔
 باطل کا سُنا۔ زَهَقًا وَزَهُوقًا۔ النَّفْسُ۔ روح کا جسم سے خارج ہونا۔ الرَّاحِلَةُ۔ سواری کا آگے بڑھنا۔ سبقت کرنا۔ الشَّيْءُ۔ باطل ہونا۔ ہلاک ہونا۔ السَّهْمُ۔ تیر کا نشانہ سے گذر جانا۔
 أَزْهَقَ۔ الْعَظْمُ۔ ہڈی کا مغز سے پُر ہونا۔ الْإِنَاءُ۔ برتن بھرنا۔
 الْبَاطِلُ۔ باطل کو مٹا ڈالنا۔ السَّهْمُ۔ تیر کو نشانے سے آگے گزارنا۔ النَّاقَةُ السَّرْبَةُ۔ اونٹنی کا زین کو آگے سرکا کر گردن پر ڈال لینا۔ فِي السَّيْرِ۔ چلتے میں جلدی کرنا۔
 زَاهَقَ۔ الْحَقُّ الْبَاطِلُ۔ حق کا باطل کو نیست و نابود کر دینا۔
 الْإِنَاءُ۔ برتن الٹ دینا۔
 لَزَّهَقَ۔ آگے بڑھنا۔ لَزَّهَقَتْ الدَّابَّةُ۔ ماروغیرہ کی وجہ سے جانور کا اچھلنا، کودنا۔
 الزَّهْقُ۔ پست زمین۔ (وَالزَّاهِقُ) گڑھا۔
 الزَّاهِقُ۔ فَا۔ موٹا فرہ جانور۔ بہت لاغر و بلا جانور (ضد) شکست خوردہ۔ مِنَ السَّهَامِ۔ تیر کا نشانہ سے گذر کر اس کے پیچھے کرنا۔
 مِنَ الْمِيَاةِ۔ تیز بننے والا پانی۔ ج۔ زَهَقَ وَزَهُوقًا۔ د۔ وَالزَّهْوَوقُ۔ ہلاک ہونے والا۔

باطل، گہرا کنواں۔ الزَّهْقُ۔ پھرتیلا۔
 الزَّاهِقَةُ۔ الزَّاهِقُ۔ کا مَوْنُث۔ يَسْتُرُ زَاهِقَةً۔ گہرا کنواں۔
 الزَّهَقُ وَالزَّهَقُ۔ مقدار۔ تقریباً "عِنْدَى زَهَقًا مِائَةً دِينَارًا" میرے پاس تقریباً سو دینار ہیں۔
 الْأَزْهَاقَةُ۔ تیزی میں تعجب انگیز۔ ج۔ أَزَاهِقُ۔
 الْمُزْهَقَةُ۔ بطلان و ہلاکت کا سبب۔
 زَهَلَ (ف) زَهْلًا۔ عَنِ الشَّيْءِ۔ دور ہونا۔
 زَهَلَ (س) زَهْلًا۔ الشَّيْءُ۔ سفید و چکنا ہونا۔
 الزَّاهِلُ۔ مَطْمَنٌ دَلَّ وَالْأَزْهَلُ۔ چکنا۔ ج۔ زَهَالِيلُ۔
 زَهْلَقَ۔ الشَّيْءُ۔ چکنا و سفید کرنا۔
 کہتے ہیں "زَهْلَقَ لَهُ الْحَدِيثُ" اس نے اس کو نرم گفت گو سے مخی طرب کیا۔
 الزَّهْلَقُ۔ چکنا۔ تیز، ہلکا پھلکا آدمی۔
 تَنَدَ ہوا۔ تپی میں لو کی جگہ۔ ج۔ زَهَالِقُ۔
 الزَّهْلُوقُ۔ موٹا۔ فرہ۔
 زَهَمَ (ن) زَهْمًا وَزَهَمَ۔ الْعَظْمُ۔ ہڈی کا گوڑے سے بھرا ہونا۔
 زَهَمَهُ۔ عَنِ كَذَا۔ روکنا۔ باز رکھنا۔
 زَهَمَ۔ الرَّجُلُ۔ کسی سے بہت باتیں کنا۔
 زَهَمَ (س) زَهْمًا۔ بَدِہْمَنِي میں مبتلا ہونا۔ صفت (زَهْمَانٌ) بہت چکنا۔ چربی دار ہونا۔ صفت (زَهْمٌ)۔ مَوْنُث (زَهْمَةٌ)۔

ذَاهِمَةٌ - آپس میں دشمنی رکھنا۔ ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ نزدیکی ہونا۔

(ضد)
الزُّهْمَةُ - بدبو، مٹیند، چربی۔ ایک قسم کی خوشبو۔

الزُّهْمَةُ وَالزُّهْمَةُ وَالزُّهْمُ - مٹے ہوئے گوشت کی بدبو۔

زَهَانٌ زَهْوًا وَزُهْوًا وَزُهَاءٌ -

چمکانا۔ روشن ہونا۔ بڑھنا۔ بنو پانا۔

النَّخْلُ - کھجور کا دراز ہونا۔

البُسْرُ - کچی کھجور کا رنگ پڑنا۔

الْعَلَامُ - لڑکے کا جوان ہونا۔

النَّبْتُ - نبات کا پھل دار ہونا۔

المشاة - بکری کا جھنڈے کے قریب پہنچنا۔

الريح - ہوا کا چلنا۔

الرجل - کسی کا جھوٹا ہونا۔

زَهَانٌ زَهْوًا - فَلَانًا - حقیر و

خفیف جاننا۔ سمجھنا۔ الیکبؤ

فُلَانًا - تکبر کا کسی کو خود پسند

بنانا۔ زَهَا السِّرَاجُ - چسراغ

روشن کرنا۔ الريح النبات

ترسبزہ کا ہوا کی وجہ سے لہلہانا۔

الأمواج السيفينة - موجوں کا

کشتی کو اٹھانا۔ فَلَانٌ

بالسيف - تلوار کا چمکانا۔ ہلانا۔

فُلَانًا بِالْعَصَا - لاکھی سے مارنا

”السراب الائمة يزهاها“

نایاں کرنا، اور يزهوہ - نہیں

کہا جاتا۔

زُهِي - الرجل يكدأ - تکبر کرنا۔

آزُهِي - تکبر کرنا۔ النخل لمبا

ہونا۔ البُسْر - رنگ پڑنا۔

زَهِي - البُسْر - رنگ پڑنا۔

زَهَتْ المذوحة الريح - پکھے

کا ہوا کو ہلانا۔ جنبش دینا۔

ازْدَهَى - الرجل مغرور بنانا۔

حقارت سے دیکھنا۔ عَ عَلَى

الأمير - مجبور کرنا۔ عَ وَلِيهِ

حقارت کرنا۔

الزُّهَاءُ - مقدار۔ اندازہ۔ تقریباً۔

زُهَاءُ مَاءَةٍ - تقریباً سو۔

الزُّهْوُ - فخر، غرور و تکبر۔ باطل و

جھوٹ۔ ظلم، تروتازہ، بتات۔

سرخی مائل کھجور۔ (د الزُّهَاءُ)

تروتازگی۔ خوبصورتی۔ زُهَاءُ

الدُّنْيَا - دنیا کی زینت و شان

و شوکت۔

الزُّهْوُ - سرخی مائل کھجور۔

الزَّاهِي - خا۔ چمکانا، پر رونق چہرے

والا۔ مونس۔

المزْدُوحِي - المَزْهُو - متکبر مغرور۔

زَاعَ يَزْدُو زَوْعًا - به الدهر

زمانہ کا پلٹ جانا۔

زَابَ يَزْدُبُ سَرْدًا - چمکے سے

بھاگ جانا۔ الماء - پانی کا بننا

زَابِجٌ زَوْجًا - بَيْنَهُمْ بَطْرًا

فساد ڈالنا۔

زَوَّجَهُ - امْرَأَةً أَوْ بامْرَأَةٍ

او لامْرَأَةٍ - کسی کا نکاح کرنا۔

الشيء بالشئ واليد - ملانا۔

زَاوَجَهُ - ایک دوسرے سے میل

جول رکھنا۔ ایک دوسرے کے قریب

ہونا۔ (وَأَزَوْجَ) بَيْنَهُمَا -

قریب کرنا۔

تَزَوَّجَ - امْرَأَةً أَوْ بامْرَأَةٍ نِكَاح

کرنا۔ فِي قَوْمٍ - کسی قوم میں

نکاح کرنا۔ تَزَوَّجَ النِّوْمُ -

اس کو نیند آگئی۔

إِزْدَوَجَ وَتَزَوَّجَ - الكلام - ایک

حصہ کا دوسرے حصہ سے سمج یا

وزن میں مشابہ ہونا۔ القوم -

آپس میں شادی بیاہ کا برتاؤ کرنا۔

الذَّاهِي - پھٹکڑی (فارسی کلمہ ہے)

الزَّوْجُ - خاوند۔ بیوی ساتھی، جوڑا۔

اِسْتَقْرَبْتُ زَوْجِي نَعَالٍ - میں

نے جوتی کا جوڑا خرید لیا۔ ہر شے کی

قسم۔ ج۔ اَزْوَاجٌ وَزَوْجَةٌ وَجِب

أَزْوَاجٌ -

الزَّوْجَةُ - بیوی۔ ج۔

الزَّوْجُ شَادِي بِيَاه -

زَاخَ يَزْدُوخُ زَوْحًا وَزَوْحًا -

عَنِ الْمَكَانِ - دور ہونا۔ ہٹ

جانا۔ چلا جانا۔ العجلة زائل

ہونا۔ (زَوْحًا) اكليل -

منتشر کرنا، اکٹھا کرنا (ضد)

أَزَاحَهُ - جگہ سے دور کرنا۔ بٹانا۔

الأمير - کام کا پورا کرنا۔ کہتے ہیں

”أَزَحْتُ عِلَّتَكَ فِي مَا أَحْتَاجُ

إِلَيْهِ“ - میں نے اس کی حاجت

روائی کی۔

إِنْزَاخَ - زائل ہونا۔

زَادَ يَزْدُو زَوْدًا - توشہ لینا۔ سفر

خرچ میا کرنا۔ آزاده وزد -

توشہ دینا۔ سفر خرچ دینا۔

إِزْدَادٌ وَاسْتِزَادَ - الرجل - توشہ

مانگنا۔

تَزَوَّدَ - توشہ لینا۔ کہتے ہیں تَزَوَّدَ

مِنَ الْأَمِيرِ كِتَابًا إِلَى عَامِلِهِ -

امیر کی جانب سے ایک خط اس کے

عامل کے پاس لے گیا۔ ”تَزَوَّدَ

مَتَى طَعْنَةً بَيْنَ أَذْنَيْهِ“ -

اس نے اپنے دونوں کانوں کے درمیان

مجھ سے نیزہ کا زخم کھایا۔

الزَّادُ - زاوراہ۔ توشہ، ذخیرہ۔



ج۔ اَزْوَدَة وَاَزْوَادُ۔
 الْمَزْوُودُ وَالْمَزَادُ وَالْمَزَادَةُ۔ توشہ
 دان۔ جہ۔ مَزَادُود۔ عادت۔
 نَفَاضَةُ الْمَزَادِ۔ توشہ دان میں
 بچے کچے رینے، ٹکڑے جن کو مسافر آ
 کر جھاڑ دیتا ہے۔ یہ خست کے لیے
 ضربِ آتش ہے۔
 زَارًا يَزُورُهُ زِيَادَةً وَمَزَارًا وَزُورًا
 وَزُورًا وَزُورَةً وَزُورَةً۔
 ملاقات کرنے کے لیے جاننا۔ صفت
 (زَائِرٌ)۔ جہ۔ زَائِرُونَ وَزُورٌ وَ
 زُورٌ۔ مَنُونٌ زَائِدَةٌ۔ جہ۔ زُورٌ
 وَزُورٌ وَزَائِدَاتٌ۔
 زَارِ زَوَارًا۔ الْفَرَسُ۔ گھوڑے کو زیار
 سے باندھنا۔
 زُورٌ يَزُورُ۔ زَوَاسًا۔ مائل ہونا۔
 ٹیڑھے سینہ والا ہونا۔
 زُورٌ۔ جھوٹ کو مزین کرنا۔ آراستہ کرنا۔
 الْكَلَامُ۔ باطل کرنا۔ جھوٹ کی
 طرف سب کرنا۔ الشَّهَادَةُ
 گواہی کو باطل کرنا۔ نَفْسُهُ۔ جھوٹ
 و بہتان کی علامت لگانا۔ عَلَيْهِ
 کسی پر جھوٹ باندھنا۔ عَنْهُ۔ کسی
 سے پھرنے۔ فَلَانًا عَلَى نَفْسِهِ۔
 کسی پر تہمت باندھنا۔ الشَّيْءُ۔ کسی
 کو اچھا کرنا۔ درست و ٹھیک کرنا۔
 الشَّيْءُ لِنَفْسِهِ۔ کسی شے کو اچھا سمجھ
 کر اپنے لیے مخصوص کر لینا۔ الزَّائِرُ
 ملاقاتی کی عزت کرنا۔ الْقَوْمُ
 صاحبِ سبب۔ بھلائی کرنا۔ نیک سلوک
 سے پیش آنا۔
 آذَارُهُ۔ ملاقات کے لیے اکسانا۔ هُ
 الشَّيْءُ۔ چلانا۔
 تَزَوَّسَ۔ جھوٹ ہونا۔ الشَّيْءُ۔ کسی
 چیز کو پسند کر کے اپنے لیے خاص کر لینا۔

تَزَاوَرَ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کی
 ملاقات کو جاننا (وَاَزْوَرَ وَازْوَارًا)
 عَشْرُ۔ علیحدہ ہونا۔ منحرف ہونا۔
 اسْتَزَارَهُ۔ ملاقات کے لیے کہنا۔
 الزَّوَسُ۔ سینہ کا درمیان سے بالائی حصہ۔ یا
 سینہ کی ہڈیوں کے جوڑ کی جگہ۔ وَقَدَسُ
 عَوْنُ الزَّوَرِ۔ چوڑے سینہ والا
 گھوڑا۔ اَلْقَى زُورَهُ۔ اقامت کرنا۔
 الزَّوَرُ۔ پختہ ارادہ، عقل، وہ خیالی شکل جو
 خواب میں نظر آئے۔ زیارت کرنے والا۔
 رِوَادُ تَشْنِيهِ۔ جمع، مذکر و مونث سب
 کے لیے کیساں ہے۔ سردار۔ رئیس۔
 الزَّوَسُ۔ عقل، جھوٹ، باطل، اللہ کے ساتھ
 شریک ٹھہرانا۔ قوت۔ رائے۔ سردار۔
 رئیس، کھانے کا مزہ، کپڑے کی ملائت و
 صفائی، راگ گانے کی مجلس۔
 الزَّوَرُ۔ کچی، سینہ کے اوپری حصہ کی
 خمیدگی۔
 الزَّيْرُ۔ مٹکا کتان۔ ایک ٹکڑا (زَيْرَةٌ)
 باریک تانت۔ عادت۔ بغیر نیت بدعتوں
 سے بات چیت کرنے کا دلدادہ۔ جہ۔
 مَزُورًا وَآزِيًا وَزَيْرَةً۔
 الزَّيَارُ۔ دو کوٹیاں جن سے ساتویں گھوڑے
 کے ہونٹوں کو دبا کر گھوڑے کو قابو میں لاتا
 ہے۔ اور اپنے کام پر قادر ہوتا ہے۔
 وَالْيَوَاسُ۔ ہر اصلاح اور بچاؤ کی
 چیز، سینہ بند اور تنگ کے درمیان کی
 رسی۔ جہ۔ اَزْوَرَةٌ۔
 الزَّيْرُ۔ غضبناک۔
 الزَّارَةُ۔ اونٹوں کا ریڑ، بانس وغیرہ کی
 پانی رکھنے والی جھاڑی۔ وَالزَّوَارَةُ
 وَالزَّوَارَةُ وَالزَّوَارَةُ (پوٹا۔
 زَاوَرَةُ الْقَطَاةِ۔ بھٹ تیر کا وہ
 حصہ جس میں وہ پانی اپنے بچوں کے لیے
 لے جائے۔

الزَّوَرُ۔ سخت رفتار۔ سخت سفروں کے لیے
 تیار کیا ہوا اونٹ (۔ وَالزَّوَيْرُ
 الزَّوَيْرُ۔ قوم کا سردار و رئیس۔
 الزَّوَرَةُ۔ ایک ملاقات۔ دوری۔
 الْأَزْوَرُ۔ ٹیڑھے سینہ والا۔ بچے سے پتلے
 سینہ والا۔ مائل، ترچھی نظر سے دیکھنے والا۔
 مَنُونٌ زُورًا۔ جہ۔ زُورٌ کہتے ہیں
 ”قَوْمٌ عَنْ مَوَاقِفِ الْحَقِّ زُورٌ“
 حق کے موقعوں سے منحرف قوم۔
 الزَّوَرَاءُ۔ گھر کنواں، کمان، پیالہ، پانڈی کا
 برتن۔ شہر بغداد۔ خَلَاةُ زُورًا۔
 دور کا جنگل۔ کَلِمَةُ زُورًا۔ پوچ
 اور پڑبات۔ مَنَارَةُ زُورًا۔
 کچ منارہ۔
 الزَّوَّاسُ وَالزَّوْدُوسُ۔ بہت زیارت
 کرنے والا۔
 الْمَزَامُ۔ زیارت۔ ملاقات، زیارت کی
 جگہ۔ جہ۔ مَزَارَات۔ اولیاء کی
 زیارت گاہیں۔
 الزَّوَرَقُ۔ چھوٹی کشتی، ڈونگا۔
 الزَّوْشُ۔ کینہ، غلام۔ الْأَزْوشُ۔ مکبر۔
 زَوَّطٌ۔ بڑا لقمہ بنانا۔
 زَاعَ يَزُوعُ زَوْعًا۔ فَلَانًا۔ روکنا۔
 آگے دھکیلنا۔ الدَّائِلَةُ۔ بانور کی لگام
 کو ہلکرا کر کوتیز چلانا۔ الشَّيْءُ۔
 موڑنا۔ لَهُ مِنَ الْبَطِيخَةِ۔ کسی
 کے لیے خربوزہ کی ایک قاش تراشنا۔
 (وَتَذَوَّعَ) اللَّحْمُ۔ گوشت
 کا پٹھے سے اتر جانا۔
 زَوَّعَ۔ الْإِبِلُ۔ اونٹوں کو منتشر کرنا۔ پرگندہ
 کرنا۔
 الزَّوْعَةُ۔ لوگوں کا ایک گروہ۔ مِنْ
 الْبَطِيخَةِ وَنَحْوَهَا۔ خربوزہ وغیرہ کی
 قاش یا پھانک۔ مِنْ الدَّنْبِ۔
 گھاس کا خشک ہونے والا قطعہ۔ جہ۔ زَوَّعَ۔

الزَّاعَةُ۔ پولیس کے آدمی۔

الزُّوْعُ وَالزُّوْعُ۔ مڑی۔

زَاعٌ يَزُوْعُ ذُوْعًا۔ الشَّيْءُ۔ جھکانا

۔ الناقۃ۔ اونٹنی کو کھیل سے کھینچنا۔

(۔ زُوْعًا وَذُوْعًا) مائل ہونا ظلم

کرنا۔ البَصْرُ۔ نگاہ میں غل آنا۔

أَزَاعَهُ إِذَا غَتَّ۔ جھکانا۔

الزَّاعُ۔ کوا۔

زَاغَتْ تَزُوْعُ ذَوْقًا۔ الحَمَامَةُ۔ کبوتر

کا بازو دم پھیلا کر زمین پر کھینچنا۔

الطَّائِرُ فِي الصَّوَا پرنده کا ہوا میں

چکر کاٹنا۔ الرَّجُلُ۔ کسی کا ڈھیلے

اعضاء کمر کے چلنا۔ الماء۔ پانی کا

بلبلے دار ہونا۔ (۔ وَتَزَاوَفَ) اعضا

میں جستی پیدا کرنے کے لیے جسمانی

ورزش کرنا۔

الزُّوْفُفُ چلنے میں ڈھیلہ ہونا۔

الزُّوْفِيُّ وَالزُّوْفَاءُ۔ باریک پتے والی

ایک نبات۔

ذَوَّقَ۔ الکلام۔ کلام کو اچھا پسندیدہ

اور مزین بنانا۔ الْبَيْتُ۔ گھر پر

نقش و نگار کرنا۔ الدُّرْهُمُ۔ درہم

پر پارہ کا طبع کرنا۔

الزَّوَاتُ۔ لونڈی کی زینت۔

الزَّوْقَةُ۔ وہ جو گھروں کو زینت دیں اور

نقش و نگار سے آراستہ کریں۔

الزَّوْفُ وَالزَّوْفِيُّ۔ پارہ۔

ذَاكَ يَزُوْكُ زَوْكًا وَزَوْكًا۔ شاخوں

کو حرکت دینا اور ٹانگوں کو نیچ سے کھولنا۔

مغروانہ چال سے چلنا۔

تَزَاوَكُ تَزَاوَكًا۔ شرم و حیا کرنا۔

الزَّوْكُ۔ معص۔ کوئے کی چال۔

زَالٌ يَزُوْلُ زَوْلًا وَزَوْلًا وَزَوْلَانًا

زَوْوًا وَزَوْوًا وَزَهِيلًا۔ جاتا

رہنا۔ پھر جانا۔ الگ ہونا۔ ہلک ہونا۔

زَوْلًا، حرکت کرنا۔ فَلَانٌ يَزُوْلُ

فِي النَّاسِ۔ فلاں لوگوں میں بہت

گھومتا پھرتا ہے۔

زَالَتْ (ن) زَوَالًا وَزَوْلًا وَزَوْلَانًا

وَزَوْلًا۔ الشمسُ۔ سورج کا

ڈھلنا۔ الخيلُ يَزْكَبُ يَهْصًا۔

گھوڑوں کا اپنے سواروں کو لے کر اٹھنا۔

اور اسی سے ہے۔ زَيْلٌ يَنْعَشُهُ۔

اس کی نعش اٹھاتی گئی۔ زَالٌ زَائِلٌ

الظَّلُّ۔ دوپہر ہوگئی۔ زَالٌ اَوْ

زَيْلٌ زَوِيلُهُ وَزَوَالُهُ۔ پہلو کا

ڈرے کا پینا۔

أَزَالَهُ وَزَوَّلَهُ وَإِزْدَالَهُ۔ ہٹانا۔ ایک

طرف کرنا۔ أَزَالَ اللَّهُ زَوَالَهُ۔

خدا اس کو ہلاک کرے۔ زَوَّلَ الشَّيْءُ۔

کسی چیز کو لانا۔

زَاوَلَهُ۔ کوشش کرنا۔ قصد کرنا۔ تلاش کرنا۔

تَزَاوَلَ۔ الشَّيْءُ۔ کسی شے کو لانا۔ الغلام

بہت ظریف ہونا۔

تَزَاوَلَ۔ القومُ۔ باہم کوشش کرنا۔

أَنْزَالَ۔ عَنْهُ۔ جدا ہونا۔

أَزْوَلَ أَزْوَالًا۔ الشَّيْءُ۔ زائل ہونا۔

الزَّوْلُ۔ معص۔ تعجب۔ عجیب۔ سیر

زَوْلٌ۔ عجیب سیر۔ شَتْوَةٌ

زَوْلَةٌ۔ عجیب سردی۔ الزَّوْلُ

وجود، فیاض، سخی، مہربان و خوش طبع،

ہبادر۔ بلا۔ ج۔ أَزْوَالٌ۔

الزَّوَالُ۔ معص۔ سورج کا سر پر سے ڈھلنا۔

الزَّائِلُ۔ فا۔ كَيْلٌ زَائِلٌ النُّجُومُ۔

لمبی ات۔

الزَّوَالُ۔ بہت حرکت کرنے والا۔

الزَّائِلَةُ۔ الزَّائِلُ کامونٹ۔ زندہ چیز

متحرک چیز۔ ج۔ زَوَائِلُ۔ الزَّوَائِلُ

ستارے، عورتیں، اشکار۔

الزَّوِيلُ۔ حرکت، جانب۔

الْمَزْوَلَةُ۔ دھوپ گڑھی۔ ج۔ مَزَاوِلُ۔

ذَامٌ يَزُوْمُ ذَوْمًا۔ مرنے۔

الزَّامُ۔ چوتھائی۔ زَاهٍ مِنَ النَّهَارِ

دن کا چوتھائی۔ وَزَامَانٌ مِنَ النَّهَارِ۔

دن کا نصف۔

الزَّامَةُ۔ جماعت، گروہ۔ ج۔ زَامَاتٌ۔

الزُّومُ۔ عوام کے نزدیک کسی چیز کا پختہ ہونا

عرق یا شیرہ۔ اس معنی کے لیے فصیح لفظ ہے

الشُّعْمُ ہے وہ پانی جس سے پھر ادرہا جاتا اس کی فصیح لفظ ہے۔

الزَّوِيحُ۔ ڈھیر، جمع شدہ شے۔

زَوَمَلٌ۔ الْإِبِلُ۔ اونٹوں کو ہلکانا۔

الزَّوَمَلَةُ۔ معص۔ لہے ہوئے گدے۔

کہتے ہیں۔ هَوَابِنُ زَوَمَلَتَهَا۔ وہ

اس کا جاننے والا ہے۔

الزَّانُ۔ بدبھمی۔

الزَّوْنُ وَالزَّوْنُ وَالزَّوْنُ۔ بُت یا

مند۔

الزَّوْنَةُ۔ زینت، عقل مند عورت۔

زَوَى يَزُوِي ذَوِيًا وَزِيًّا۔ الشَّيْءُ۔

ایک طرف کرنا، ہٹانا۔ روکنا۔ جمع کرنا

قبضہ کرنا۔ الْمَالُ۔ مال وغیرہ اکٹھا کرنا

۔ عَنْهُ السَّيْرُ۔ راز پوشیدہ رکھنا۔

چھپانا۔ عَنْهُ حَقْلَةٌ۔ کسی کا حق

روک لینا۔ الدَّهْرُ الْقَوْمُ۔ زمانے

کا قوم کو بر باد کی گھاٹ اتارنا۔

زَوَى وَتَزَوَّى وَتَزَوَّى۔ گوشہ نشین

ہونا۔ تَزَوَّى وَتَزَوَّى۔ سکرنا

منقبض ہونا۔ زَوَى الْكَلَامُ۔ کلام کو

دل میں سوچنا۔ اِنْزَادَ الْقَوْمُ

بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ قوم کا یکجا


ہونا۔ سَمْنَا، باہم نزدیک ہونا۔

الزَّوِيَّةُ۔ گھر کا کونہ۔ ج۔ سَوَايَا۔

بڑھوں کی اصطلاح میں دو مستقیم ضلعوں

کا ایک آلہ جن کے میلان پر زاویہ قائمہ

پیدا ہوتا ہے۔



تَذْيَبٌ - لَحْمُهُ - گوشت کا اکٹھا ہونا۔
الزَيْبُ - ہوا کی تیزی۔ رَجُلٌ زَيْبٌ و
أَزْبٌ - مضبوط آدمی۔

الزَيْبُ - شاد ماں۔ بہت قد۔ چھوٹے
چھوٹے قدم رکھنے والا۔ کینہ منہ بولا بیٹا۔
اجنبی، ناپسندیدہ امر، مصیبت، دشمنی
بہت پانی، خوشی، سستی، جنوبی ہوا۔
الزَيْبُ - شہرید، بخیل۔

الزَيْبُ - پارہ۔
ذَاتُ يَزْيَتٍ زَيْتًا وَزَيْتٌ - الصَّحَامُ
کھانے میں زیتون کا تیل ڈالنا۔ الشَّيْءُ
کسی چیز پر تیل لگانا۔ الْقَوْمُ - قوم

کو زیتون کا تیل کھانا یا بطور توشہ دینا۔
أَزَاتٌ لَزَاتٌ - بہت تیل والا ہونا۔
لَزَاتٌ لَزِيذٌ - روغن زیتون ملنا۔
الْمُسْتَنْزَاتُ - روغن زیتون مانگنا۔
الزَيْتُ - ہ۔ زیتون کا تیل۔ ج۔

زَيْتُوتٌ - (الزَّيَّاتُ) تیلی۔ تیل کا
نیچے والا۔ زیت کا اطلاق ہر تیل پر بھی
ہوتا ہے۔ خواہ کسی چیز سے نکالا جائے۔
الزَيْتُونُ - زیتون کا درخت۔ زیتون کا پھل
واحد زَيْتُونَةٌ

الزَيْتُونِيُّ - زیتون کے رنگ کا۔
الْمِزْيَتُ وَالْمِزْيُوتُ - جس میں تیل
ڈالا گیا ہو۔

الزَيْجُ - معاروں کا دھاگا جس سے وہ دیوار
کو برابر کرتے ہیں۔ علم ہیئت میں اس
جدول کا نام ہے جس سے سیاروں کی
حرکات کا پتہ لگاتے ہیں۔ ج۔ زَيْجَاتُ
وَزَيْجَةٌ - (داخل کلمہ ہے)

ذَاخٌ يَزِيخُ زَيْحًا وَزَيْوَحًا و
زَيْوَحًا وَزَيْحًا وَانْزَاخٌ -
دور ہونا۔ چلے جانا۔ ذَاخٌ الِيسَامُ -
نقاب کھولنا۔ دور کرنا۔

أَزَاخٌ - دور کرنا۔ لے جانا۔

الْمَزَاخُ - غلوت کی جگہ، تنہائی کی جگہ۔
ذَاخٌ يَزِيخُ زَيْحًا وَزَيْحًا نًا - ظلم کرنا
نا انصافی کرنا۔ الگ ہونا۔

أَزَاخٌ - بٹانا۔ الگ ہونا۔
تَزْيِيخٌ - ذیل ہونا۔

زَادٌ - يَزِيدُ زَيْدًا وَزَيْدًا وَزَيْادَةً
وَمَزِيدًا وَزَيْدًا نًا - بڑھنا۔ زیادہ
ہونا۔ الشَّيْءُ - بڑھانا۔ فَلَانٌ
زیادہ دینا۔

زَيْدٌ - بڑھانا۔
زَايِدٌ فَزَادَ - بڑھنے میں مقابلہ کرنا
اور غالب آنا۔

تَزَيَّدَ - السَّعْرُ - بھاؤ کا بڑھنا۔ اوچی
ہونا۔ نَرْخٌ کا گراں ہونا۔ الرَّجُلُ
فِي حَدِيثِهِ - بات کو بڑھا کر بیان
کرنا۔ فِي الشَّيْءِ - بڑھانے میں
شکلف کرنا۔

تَزَايَدَ - فِي حَدِيثَيْنِ - بات میں مبالغہ
کرنا۔ تَزَايَدَ فِي السِّلْعَةِ - ایک
دوسرے سے بڑھ کر بولی بولنا

لَزْدَادٌ - زیادہ ہونا یا کرنا۔ زیادہ مانگنا۔
(لازم و متعدی)

اِسْتَزَادَ - زیادتی چاہنا۔ قاصر سمجھنا اور
شکایت کرنا۔

الزَّائِدُ - فَا - مُؤَنَّثٌ - زَايِدَةٌ - ج۔
زَوَائِدُ - الزَّوَائِدُ مِنَ الْاَسْثَانِ -
کچلیوں کے قریب کے دانت۔

الزِّيَادَةُ - مَصْ - بڑھائی ہوئی چیز۔ ج۔
زِيَادَاتٌ وَزِيَايِدٌ -

الزَّيْدُ وَالزَّيْدُ - زیادتی، بڑھاء، کتے
ہیں۔ "هَذَا زَيْدٌ عَلَى مِائَةٍ" وہ
سو سے زائد ہیں۔

الْمَزِيدُ - مَصْ و مَفْعٌ - کتے ہیں۔ "لَا
مَزِيدَ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ" یعنی اس
امر پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔

الْمَزَادَةُ - توشہ دان۔ چمڑے کے ٹکڑوں سے
پانی رکھنے کے لیے تیار کردہ تختہ یا
دو لچی۔ ج۔ مَزَادٌ وَ مَزَايِدٌ -

الزِّيَادَةُ - ایک قسم کا کپڑا جو زیر زین کی آواز
نکالتا ہے اور درختوں پر ملتا ہے۔

الزِّيَادَةُ وَالزِّيَادَةُ وَالزِّيَادَةُ وَالزِّيَادَةُ
چھوٹا ٹیل یا کرخت زمین، پر یا اس کے
اطراف۔ ج۔ الزِّيَادَةُ -

الزِّيَادَةُ - ایک قسم کا پودا۔
نَاطٌ يَزِيضُ ذَيْطًا وَزَيْطًا - چھینا اور
بہت جھگڑنا۔

ذَاخٌ يَزِيغُ زَيْغًا وَزَيْغًا نًا وَزَيْغُوعَةٌ
ٹپڑھا ہونا۔ مائل ہونا۔ الْبَصَرُ - نگاہ
کا ٹھکانہ

زَيْغٌ - ٹپڑھا کرنا۔ کجی کو درست کرنا۔
أَزَاغٌ - عَيْنُ الطَّلِيْقِ - راستہ سے
بھٹکانا۔ ہدراہ کرنا۔ الرَّجُلُ - کجی
میں ڈالنا۔

تَزْيِيغٌ - آراستہ ہونا، مزین ہونا۔ تَزَايَغٌ
مائل ہونا۔

الزَّائِغُ - فَا - ج۔ زَاغَةٌ وَ زَايِعُونَ -
الزَّاعُ - ایک چھوٹا کوا جس کے پیٹ اور
پیشہ پر کچھ سفید بال ہوتے ہیں۔ یہ گندگی

خور نہیں ہوتا، اسی کی ایک قسم ہے جس کو
الزَّاعُ الْجَبِيْنِيُّ کہتے ہیں، یہ مردار
خوار ہوتا ہے۔ ج۔ زَيْغَانٌ -

الزَّيْغُ - مَصْ - حق سے انحراف۔ غلک۔
زَاغَتُ رَضٍ زَيْغًا - الدَّارَاهُ - کھوٹے
ہونا۔ زَاغٌ - زَيْغًا - الدَّارَاهُ -

کھوٹے بنانا یا سمجھنا۔ الْحَايِظُ - دیوار
پھانڈنا۔ (ر۔ زَيْغًا وَ زَيْغَانًا)
مٹک کر چلنا۔ الْبَعْيُ - ڈگگاتے

ہوئے تیز چلنا۔
زَيْغٌ - الدَّارَاهُ - کھوٹے بنانا یا ظاہر
کرنا۔ الرَّجُلُ - کسی کی تحقیر کرنا۔

<p>تَزَيَّنَ تَزْيِينًا وَارْتَيَّنَ ارْتِيَانًا وَ ارْدَانًا لِرُدْيَانًا وَسَيَّيْنًا ارْزِيَانًا وَارْزِيَانًا ارْزِيِيَانًا آراستہ ہونا۔ بازینت ہونا۔ الزَّائِنُ۔ فا۔ امْرَأَةٌ زَائِنَةٌ۔ سنوری مہوئی عورت۔ الزَّيْنُ۔ مصی۔ آراستگی۔ خوبصورتی۔ ج۔ أَزْيَانٌ۔ زَيْنٌ الدَّيْلُ۔ مرغ کی کھنی۔ الزَّائِنَةُ۔ بد معنی۔ الزَّيْنَةُ۔ آراستگی زینت کی اشیاء۔ آمْرَاضُ الزَّيْنَةِ۔ جلد یا ناخن یا بالوں کے امراض۔ الزِّيَانُ۔ خوبصورت۔ الزِّيَانُ۔ بہرہ شے جس سے زینت حاصل کی جائے۔ الْمُزَيِّنُ۔ حجام۔ نائی۔ زَيَاةٌ۔ تَزْيِيَةٌ۔ پوشاک پہنانا۔ تَزْيَا۔ پوشاک پہننا۔ آراستہ ہونا۔ یزئی القوم۔ قوم کا لباس پہننا۔ الِيزِيُّ۔ بہت شکل۔ پوشاک پہنے ہوئے کی شکل أَقْبَلَ يَزِيَّ الْعَبَّ۔ وہ عرب کے لباس میں آیا۔ جَاوَنَارُ يَزِيَّ غَرِيبٍ۔ وہ ہمارے پاس عجیب لباس میں آیا۔ ج۔ اَزْيَاءُ۔</p>	<p>آزَالَهُ إِزَالَةً وَأَزَالَ — عَنْ مکانہ۔ جگہ سے ہٹانا۔ زَيْلَهُ۔ متفرق کرنا۔ زَايِلَهُ۔ باہم دگر جدا کرنا۔ تَزَايَلُوْا وَتَزَايَلُوْا۔ متفرق ہونا۔ جدا ہونا — عَنْهُ۔ شرمنا۔ الذَّيْلُ۔ ہر دو رانوں کے درمیان کا فاصلہ الْأَزْيَلُ۔ دونوں رانوں کے درمیان کا فاصلہ۔ رَجُلٌ مُزَيَّلٌ وَمُزَيَّلٌ خوش طبع، ہنرمند، ذہین۔ زَاهِمٌ يَزِيحُ وَيَزَاهُ زَيْمًا۔ بھلائی فَاسَكْتَهُ۔ ایک لفظ بول کر خاموش کر دینا۔ تَزَيَّمَتِ — الْخَيْلُ وَغَيْرَهَا۔ گھوڑوں وغیرہ کا متفرق ہونا۔ پر اگندہ ہونا۔ اللَّحْمُ۔ گوشت کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ یا گتھا ہوا ہونا۔ الزَّيْمَةُ۔ گوشت وغیرہ کا ٹکڑا۔ ج۔ زَيْحٌ زَانَةٌ يَزِيئُهُ زَيْيَانٌ۔ زینت دینا۔ الشيءُ۔ خوبصورت بنانا۔ آراستہ کرنا۔ زَيْنَةُ تَزْيِينًا وَأَزَانَةً إِزَانَةً وَ أَزْيَنَةً أَرْيَانًا۔ زینت دینا۔</p>	<p>الْبِنَاءُ۔ عمارت کا بلند ہونا۔ تَزَيَّقَتِ — الدَّرَاهِمُ۔ کھوٹے ہونا۔ الزَّايِقُ۔ فا۔ شیر۔ مِنَ الدَّرَاهِمِ کھوٹا درہم۔ ج۔ زَيْقٌ وَزَيْوْفٌ۔ الزَّيْفُ۔ دیوار کا چھجھر۔ کنگرہ۔ ج۔ زَيَافٌ وَأَزْيَافٌ وَزَيْوْفٌ الزَّيَافُ۔ مٹک کر چلنے والا۔ شیر۔ مؤنث۔ زَيَافَةٌ۔ زَيْقٌ — الثوبُ۔ کپڑے میں گوٹ لگانا۔ تَزَيَّقَتِ — الْمَرْأَةُ۔ عورت کا بننا سنورنا سر مہ لگانا۔ الزَّيْقُ — مِنَ الثوبِ۔ کپڑے کی گوٹ۔ دیوار برابر کرنے کے لیے مٹکا دھاگا۔ زَالِقٌ رَضٌ، زَيْكَانًا۔ ناز و نخرہ سے چلن الزَّيْلُ۔ چھوٹے جواہر جو بڑے جواہر کے گردا گرد جڑے ہوئے ہوں۔ زَالَهُ يَزَالُهُ وَيَزِيلُهُ زَيْلًا — عَنْ مَكَانِهِ۔ جگہ سے ہٹانا۔ مَا زِلْتُ أَفْعَلُ — میں کرتا رہا۔ زِلْتُ يَزِيدُ وَمَا زِلْتُ زَيْدًا حَتَّى فَعَلْتُ — میں زید کے ساتھ لگا رہا حتیٰ کہ اس نے کر دیا۔</p>
---	---	--

س

<p>زخم کا کھل جانا۔ پھٹ جانا۔ صفت (سَيِّدٌ) أَسَادَ — اسَادًا۔ ساری رات چلنا۔ کہتے ہیں: أَسَعَدَ يَوْمَهُ اسْعَادًا مَنْ أَسَادَ لَيْلَتَهُ اسَادًا۔ ساری رات چلا اس نے اپنے دن کو مبارک بنایا۔ السُّوَادُ۔ کھاری پانی پینے سے پیدا شدہ بیماری۔</p>	<p>السُّوَابُ۔ بڑی مشک۔ بہت پانی پینے والا۔ سَاءَتْ (دَف) سَاءًا۔ گلا گھونٹنا۔ سَاءَ يَسَاءُ يَسَاءُ۔ سَاءَدُ (دَف) سَاءًا وَ سَاءَدًا۔ گلا گھونٹنا۔ سَيِّدٌ۔ کھاری پانی کے پینے سے بیمار پڑنا۔ صفت (مُسَوَّدٌ) سَيِّدٌ (دَف) سَاءَدًا۔ پینا — الْجَرْمُ</p>	<p>السَّيْنُ۔ فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ سَاءَبَهُ (دَف) سَاءَبًا۔ گلا گھونٹنا۔ السَّيْقَاءُ۔ مشک کو فراخ کرنا۔ چوڑی کرنا۔ وَسَيَّبَ (دَف) سَاءَبًا — مِنَ الشَّرَابِ۔ سیراب ہونا۔ آسودہ ہو کر پینا۔ السَّابُ۔ بڑی مشک۔ ج۔ سَوَّوْبٌ السُّوَابُ۔ مال کا اچھا منتظم۔</p>
---	--	--



السُّؤْدَةُ - جوانی کا بقیہ۔
 سَأَرَفَ (سَأَرًا - وَأَسَارًا - الشَّارِبُ
 فِي الْإِنَاءِ - پینے والے کا برتن میں کچھ
 باقی چھوڑنا۔ جوٹھا چھوڑنا۔ صفت
 (سَأَرًا) سَأَرًا الْخَاسِبُ -
 حَسَابِهِ - حساب لگانے والے نے
 حساب پوری طرح نہیں کیا۔
 سَيَّوَرَسَ (سَيَّارًا - باقی رہنا۔
 تَسَارًا - النَّيِّدُ - جوٹھا بیڈھنا۔
 السُّوَرُ - برتن میں پانی وغیرہ کا بقیہ، جوٹھا
 چھوڑا ہوا۔ باقی ماندہ۔ ج۔ اَسَاسًا -
 "هُوَ سُورٌ شَرِيحٌ" - وہ شریعہ ہے۔
 السُّوْدَةُ - جوانی کا بقیہ - مِنَ الْمَالِ
 عَمْدَهُ مَالٌ - ج۔ سُورٌ -
 السَّائِرُ - فَا - مِنَ الشَّيْءِ جِزْرًا بَقِيَّةً،
 باقی ماندہ حصہ۔
 سَأَسَا سَأَسَا - بِالْحِمَارِ كَسَمِ
 كُورٍ كُنْ يَأْتِيهِ يَأْتِيهِ كَيْفَ يَأْتِيهِ
 لَكَارًا -
 تَسَاءَلَتِ - الْأُمُورُ - مختلف ہونا۔
 سَأَفَتْ (رَفَ) سَأَفًا وَتَسَفَّتْ (رَفَ)
 سَأَفًا - يَدُهُ - ہاتھ کا ناخن کے ارد
 گرد سے پھٹنا۔ تَرَفُّنًا - ہاتھ کی، صفت
 (تَسَفَّتْ) سَأَفَ وَتَسَفَّتْ -
 لَيْفُ النَّخْلِ - کھجور کے پتوں وغیرہ
 کا پھٹنا۔ پھلنا۔
 السَّافُ - کھجور کی شاخ۔ دُم کے بال۔
 السَّائِقَةُ - ریت کے نیچے کی باریک ریت
 ج۔ سَوَائِقُ -
 سَأَلَ (رَفَ) سُؤَالًا وَسَأَلَةً وَسَأَلَةً
 وَمَسْأَلَةً وَتَسَالًا - مانگنا۔ چاہنا
 درخواست کرنا، اس کا تعدیہ و مفعول کی
 طرف ہوتا ہے جیسے "سَأَلْتُ اللَّهَ
 نِعْمَةً" - اور جب استخبار کے معنی
 دیتا ہے تو مفعول اول کی طرف بنفسہ

اور مفعول دوم کی طرف بذریعہ عین
 متعنی ہوتا ہے جیسے "سَأَلْتُهُ عَنْ
 حَاجَتِهِ"
 سَأَلَهُ وَسَأَلَهُ مَسْأَلَةً وَمَسْأَلَةً
 وَسَأَلَ - عَنْهُ - یعنی سَأَلَ -
 أَسْأَلُهُ - سُؤْلُهُ وَتَسَوَّلْتُهُ وَمَسْأَلَتُهُ
 کسی کی حاجت پوری کرنا۔
 تَسَأَلَ وَتَسَوَّلَ - مانگنا۔
 تَسَأَلَ وَتَسَوَّلَ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے
 سے دریافت کرنا۔ پوچھنا۔
 السُّؤْلُ وَالسُّؤْلُ وَالسُّؤْلَةُ - التَّجَا
 وَتَحَوَّاسُ -
 السَّأَلَ وَالسُّؤْلَةُ وَالسُّؤُولُ - بہت
 پوچھنے والا۔
 السَّائِلُ - فَا - مانگنے والا۔ ج۔ سَائِلُونَ
 وَسُؤْلٌ وَسُؤَالٌ وَسَأَلَةٌ -
 الْمَسْئَلَةُ - حاجت۔ مطلب۔ ج۔
 مَسَائِلُ -
 الْمَسْئُولِيَّةُ - ذمہ داری۔
 سَيَّوَرَسَ (رَفَ) سَأَمَةً وَسَأَمًا وَ
 سَأَمَةً وَسَأَمًا وَسَأَمَةً - الشَّيْءُ
 دُونَهُ - کسی چیز سے اکتا جانا۔ ملول
 ہونا۔ صفت (سَيَّوَرَسَ)
 سَأَمَةً سَأَمًا - ملول کرنا۔ اکتا دینا۔
 سَأَدَنَ (رَفَ) سَأَدًا - دُونًا - الشَّيْءِ -
 کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ قصد کرنا -
 الْوَجَلُ - کسی کو رنجیدہ کرنا -
 الثَّوْبُ - کپڑے کو کھینچ کر پھاڑنا۔
 يَبَيْتُهُمْ - لوگوں میں فساد برپا کرنا۔
 السَّأُو - مَعِ - وطن، وہ جہت جس کا
 ارادہ کیا جائے۔
 سَبَبَةُ (رَفَ) سَبَابٌ وَسَبِيحٌ - سخت گالی
 دینا۔ مقعد میں نیزہ مارنا۔ تَسْبَا
 الْحَبْلُ - رسی کا ٹٹا - الْفَدَسُ -
 گھوڑے کی کونچیں کا ٹٹا۔

سَبَبَةُ - بہت گالی دینا۔ الْأَسْبَابُ -
 اسباب پانا۔ لِلْمَاءِ مَجْرًحِي -
 پانی کے لیے نالی درست کرنا۔ الْأَمْرُ -
 کسی امر کا سبب بننا۔
 سَبَابَةُ مَسَابِكَةٍ وَسَبَابَا - گالی دینا۔
 بے عزتی کرنا۔
 تَسَبَّبَ - اسباب تلاش کرنا۔ پہلو
 الِيْلُ - وسیلہ بننا۔ يَأْلَامُ -
 سبب ہونا۔
 تَسَابَتِ - الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے کو
 گالی دینا اور تعلقات توڑ لینا۔
 اسْتَسَبَّتِ - الْقَوْمُ - باہم گالی گلوچ کرنا۔
 اسْتَسَبَّتِ - لَهْ - گالی کے لیے پیش کرنا
 یا کھینچ کر گالی کے لیے لے جانا۔
 اسْتَسَبَّتِ لَهْ الْأَمْرُ - معاملہ درست
 ہونا۔
 السَّبَبُ وَالسَّبَبَةُ وَالسَّبَبُ وَالْمَسَبَةُ
 بہت گالی دینے والا۔ السَّبَبُ - ج۔
 سَبُوبٌ - رسی، میخ، کتان کا باریک
 ٹکڑا، پردہ۔
 السَّبَبَةُ - مِنَ الْحَرِّ أَوِ الْبَرِّ أَوِ الدَّهْرِ -
 عرصہ۔ مقعد۔
 السَّبَبَةُ - اَلْغَتِ شَهَادَتِ - عِنْدَ
 الْمُؤَيَّدِينَ - ہفتہ۔
 السَّبَبَةُ - بہت گالی دیا ہوا۔ عار، بے عزتی۔
 السَّبَبُ رَسِي - ذریعہ، راستہ - "قَطَعَ
 اللَّهُ بِهِ السَّبَبَ" - اللہ نے اس کی
 زندگی ختم کر دی۔ دوستی، قرابت داری کا
 رشتہ، عروسی کی اصطلاح میں دو عرف
 متحرک یا ایک متحرک دوسرا سکن۔ ج۔
 السَّبَابُ - أَسْبَابُ السَّمَاءِ آسَمَانِ
 کے اطراف دکھارے یا آسمان میں پڑھنے
 کی جگہیں - "تَعَالَى الْأَسْبَابُ" - اس نے
 امورِ میشت کے اسباب مہیا کیے۔
 تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ - ان کی

دوستیاں اور تعلقات کٹ گئے۔
 السَّبِيْبُ وَ السَّبِيْبَةُ: بالوں کا گچھا۔ مِنْ
 الْفَرْسِ: گھوڑے کا دم یا اس کی پیشانی
 کے بال۔ ایاں۔ جر۔ سَبَابُ
 السَّبَابُ: بہت گالی دینے والا۔ مَوْنَتُ
 سَبَابَةٍ
 الرُّسْبُوْبَةُ: گالی کا باعث۔
 السَّبَابَةُ وَ الْمَسْبَةُ: انگشت شہادت۔
 سَبَاءٌ (ف) سَبَاءٌ وَ سِبَاءٌ وَ مَسْبَاءٌ
 الْخَمْرُ: شراب کو پینے کے لیے
 خریدنا۔ الْجِلْدُ: کھال بھینچنا، اتارنا۔
 الْجِلْدُ بِالْثَّارِ: کھال کو آگ سے
 جلانا۔ الرَّجُلُ: کسی کے کوڑے
 لگانا۔ مَصَافِرُ: کرنا۔ الثَّارُ الْجِلْدُ:
 آگ کا کھال کو جھکنا۔
 أَسْبَأَ: رَأَى اللهُ: حکم الہی کے لیے جھک
 جانا۔ عَلَى الشَّرِّ: شرارت پر کمر
 بستہ ہونا۔ شَرِيرٌ: ہونا۔
 السَّاءُ: الْجِلْدُ: کھال کا اترنا۔ چیلنا۔
 اسْتَبَاءَ اسْتَبَاءَ الْخَمْرُ: شراب کو
 پینے کے لیے خریدنا۔
 أَسْبَاءُ وَ السَّبِيْبَةُ: شراب۔
 السَّاءُ: شراب بیچنے والا۔
 السَّبَابُ: دور کا سفر۔
 السَّبِيْبُ: سانپ کی کینچی۔
 الْمَسْبَاءُ: پہاڑی راستہ یا عام راستہ۔
 سَبَتَ (ن ص) سَبَتًا: ہفتہ کے دن
 میں داخل ہونا۔ سبت منانا۔ آرام
 لینا۔ الشَّيْءُ: کاٹنا۔ الواسُ
 مَرْمُوْدُنَا: الرَّجُلُ: حیران ہونا۔
 الشَّعْرُ: بال لگانا۔ عُنْقُهُ:
 گردن مارنا۔
 سُبِدْتُ: الرَّجُلُ: نیند آجانا۔
 اسْتَبَتَ: ہفتہ کے دن میں داخل ہونا۔
 اسْتَبَتَ: الشَّيْءُ: چیز کا لمبا ہونا۔ دراز

ہونا۔ الْجِلْدُ: کھال کا نرم ہونا۔
 الْوَجْدُ: چہرہ کا لمبا ہونا۔
 اسْتَبَتَ: ہفتہ کے دن کو منانا۔
 السَّبْتُ: مص۔ سبچہ۔ سبت۔ جر۔
 اسْتَبْتُ وَ سَبَوْتُ: السَّبْتُ:
 بہت سونے والا۔ عمدہ گھوڑا۔ دلیر لڑکا۔
 چالاک آدمی۔ زمانہ (۔ السَّبْتَةُ)
 زمانہ کا ایک غرضہ۔
 السَّبْتُ: رنگی ہوئی کھال، ادھوڑی۔
 السَّبَاتُ: نیند یا اونگھ۔ زمانہ۔ چالاک
 آدمی۔ "ابْتَسَبَاتٍ" دن رات
 السَّبْتَانُ: بیوقوف۔
 السَّبْتَانُ: بیابان۔
 السَّبْتَانِي: بہادر۔ آگے بڑھنے والا چیتا۔
 جر۔ سَبَانَتْ وَ سَبَاتِي: مؤنث
 سَبْنَانَةُ: السَّبْنَانَةُ: زبان دراز
 عورت۔
 السَّبِيْبُ: فَا: وہ شخص جو بیماری وغیرہ
 کی وجہ سے بل جل نہ سکے۔ نہ آنکھیں
 کھولے۔
 الْمَسْبُوْتُ: مفع۔ میت یا بے ہوش۔
 تَسْبِيْحُ: سیاہ کبل اوڑھنا۔ سیاہ چادر۔
 یا گدڑی پہننا۔
 السَّبِيْحَةُ: سیاہ چادر یا گدڑی۔ جر۔
 سَبِيْحُ:
 السَّبِيْحُ: سیاہ مٹکے۔
 السَّبَابُ: سیاہ کبل یا گلیم بیچنے والا۔
 سَبِيْحُ (ف) سَبِيْحًا: الرَّجُلُ: معاش
 کے سلسلہ میں تصرف کرنا۔ سونا، آرام
 لینا۔ دُرْسُک نکل جانا۔ عَيْنُ الرَّمْرِ:
 فارغ ہونا۔ فِي الْكَلَامِ: بہت
 کلام کرنا۔ فِي الْأَرْضِ: زمین
 کھودنا۔ الْقَوْمُ: قوم کا پھرنا
 اور پھیلنا۔ (۔ سَبِيْحًا وَ سَبَاخَةً)
 فِي الْمَاءِ وَ بِالْمَاءِ: پانی میں تیرنا۔

(۔ سُبْحَانًا، سُبْحَانَ اللَّهِ
 کنا۔
 سَبِيْحُ: تَسْبِيْحًا: نماز پڑھنا۔ سُبْحَانَ
 اللَّهِ: کنا۔ اللَّهُ: خُذَا
 تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ خدا تعالیٰ کی بزرگی
 بیان کرنا۔
 اسْتَبَحَلُ: تیرنا۔
 السَّبْحَةُ: سَبِيْحُ: کاسمِ مرقہ۔ کھال کے کپڑے
 السَّبْحَةُ: دغا۔ قَضِيْبَتُ سُبْحَتِي
 میں نے اپنی دعا پوری کر لی۔ نفل نماز۔
 تَسْبِيْحُ: سُبْحَةُ اللَّهِ: اللہ تعالیٰ
 کا جلال۔ جر۔ سَبِيْحُ وَ سُبْحَاتُ:
 سُبْحَاتُ وَجْهِ اللَّهِ: انوار الہی۔
 سُبْحَانَ: مص۔ کہتے ہیں۔ سُبْحَانَ
 اللَّهِ: یعنی میں اللہ تعالیٰ کی ہر عیب و
 برائی سے پاکی بیان کرتا ہوں۔ وَ سُبْحَانَ
 مِنْ كَذَا: تعجب کے لیے ہے۔ وَ
 أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا فِي سُبْحَانِكَ
 یعنی جو کچھ تمہارے نفس میں ہے، اس کو
 تم ہی زیادہ جانتے ہو۔
 التَّسْبِيْحَةُ: مص۔ کلام تَسْبِيْحُ۔ جر۔
 تَسْبِيْحُ:
 السَّابِيْحُ: فَا: سَابِحُونَ وَ سَبَاخُ وَ
 سَبَاخُ: مؤنث سَابِيْحَةُ: جر۔
 سَابِيْحَاتُ وَ سَوَابِيْحُ: السَّوَابِيْحُ
 مِنَ الْخَيْلِ: تیز دو گھوڑے۔ وَ
 السَّابِيْحَاتُ: کشتیاں، ستارے۔
 السَّابِيْحُ: بڑا تیراک۔
 السَّبِيْحُ: بمعنی سَابِيْحُ۔ جر۔ سَبِيْحًا
 قَرَسٌ سَبُوْسُ: رفتاریں ادھر
 ادھر نہ ہلنے والا گھوڑا۔
 السَّبُوْسُ وَ السَّبُوْسُ: صفات باری
 تعالیٰ میں سے ہیں۔ ثَوْبٌ مُسَبَّحٌ:
 مضبوط کپڑا۔
 الْمَسْبَحَةُ وَ السَّبَاخَةُ: انگشت شہادت



المَسْبُوحَةُ - عوام کے نزدیک نفل نماز،
تبیح یا تسبیح۔

سَبَّحَ سَبَّحَةً - سُبْحَانَ اللَّهِ کہنا۔
السَّبَّحُ - مویا۔ جَارِيَةٌ سَبَّحَةٌ -
لبے قد والی لوندی۔

سَبَّحَن - سُبْحَانَ اللَّهِ کہنا۔
سَبَّحَ (س) سَبَّحًا - گہری نیند سونا۔ فارغ
ہونا۔ دور ہونا۔

سَبَّحَ (س) سَبَّحًا - امکان کسی جگہ کا
شورے والی ہونا۔ صفت (سَبَّحَ)
سَبَّحَ - عَنَهُ - ہلکا کرنا۔ کہتے ہیں۔

”اللَّهُ سَبَّحَ عَنِّي الْخُبَىٰ أَوْ
الشَّدَّةَ“ - اے اللہ میرے بجا ریاضی
کو ہلکا کر دے۔ الْحَرَّ - گرمی کو

ٹھنڈا کرنا۔ الْقُطُنَ وَنَحْوَهُ
روئی دھنا۔ الرَّجُلُ - کسی کا
گہری نیند سونا۔ فارغ ہونا۔ الْعَرْفُ

رگ کا ساکن ہونا۔ الْحَرَّ - گرمی
کام ہونا، ہلکا ہونا۔

أَسْبَحَ - فِي الْحَقْرِ - کھوونے میں زمین
شور تک پہنچنا۔ امکان کسی
جگہ کا شورے والی ہونا۔

تَسْبَحَ - الْحَرَّ أَوِ الْعَصَبَ - گرمی کا
ٹھنڈا ہونا۔ أَرْضٌ سَبَّحَةٌ - ج
سبّاخ و سبّاخہ، ج۔ سَبَّحَات

زمین شور۔
السَّبَّحَةُ وَالسَّبَّحَةُ - عین اور دلدلی
زمین کاٹی کے مانند پانی کے اوپر آجائے

والی چیز۔ ج۔ سَبَّاحٌ۔
السَّبَّاحُ - مِنَ الْأَرْضِ - ویران کھیت
جو نہ بڑتا گیا ہو۔

السَّبَّاحُ - دھنی ہوئی روئی یا بھرے
ہوئے پروغیرہ۔
السَّبَّاحَةُ - دھنی ہوئی روئی کا گالا۔
ج۔ سَبَّاحٌ۔

سَبَد (د) سَبَدًا - الشَّعْرَ - بال مونڈنا
- شَارِبُهُ - مونچھوں کا بڑھکر
ہونٹوں پر آجانا۔

سَبَد - الشَّعْرَ - مونڈنے کے بعد
بالوں کا اگنا۔ الْفَرْخَ - چوزے
کے پر نکلتا اور سخت ہونا۔ الرَّجُلُ

سر میں تیل لگانا چھوڑ دینا۔ رَاسُهُ
سر میں لکھی کرنا۔ تَرَکْنَا اور پھر چھوڑ
دینا۔ شَعْرًا - بالوں کو مونڈنا۔

- الْعَشَبُ - پرانی گھاس میں نئی
گھاس کا اگنا۔

أَسَبَد - الشَّعْرَ - بال مونڈنا۔
الْعَشَبُ - پرانی گھاس میں نئی گھاس
کا اگنا۔

السَّبَدُ - پھڑپھا۔ مَصِيبَتُ ج۔ أَسْبَادُ
الْأَسْبَادُ - کالے کپڑے۔ أَسْبَادُ
الْعَشَبِ - سبزہ کی نئی نکلی ہوئی نوکیں

یا سرے کہتے ہیں۔ ”هُوَ سَبَدٌ مِنْ
الْأَسْبَادِ“ وہ ہوشیار و چالاک
چور ہے۔

السَّبَدُ - کم بال کہتے ہیں۔ ”مَا لَهُ
سَبَدٌ وَلَا لَبَدٌ“ اس کے پاس نہ
بال نہ صوف یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔

السَّبَدُ - سبز گھاس کا بقیہ۔
السَّبَدُ - حوض کی نالی کا کپڑے کا ڈاٹ۔
بڑبڑتی۔ ج۔ سَبَدَانٌ - ایک قسم کا پرندہ

السَّبَدَانِ - لمبا، بھادر، چیتا۔ ج۔
سَبَائِدُ وَسَبَائِدَةٌ - السَّبَائِدَةُ
کھیل کود میں مصروف رہنے والے

لوگ۔
سَبَرْدَن (س) سَبَرًا أَوْ سَبَرًا وَاسْتَبَرَّ
الْجَوْحَ أَوِ الْبَثْرَ أَوِ الْمَاءَ - زخم یا

کنوئیں یا پانی کی گہرائی کا پتہ لگانا۔
جاچ کرنا۔ الْأَمْرَ - تجربہ کرنا۔
آزمانا۔

السَّبَرُ - مص۔ شبر۔ (و السَّبَرُ) اصل،
رنگ، جمال، ہیئت، مشابہت۔

”فَلَانٌ حَسَنُ الْحَبْرِ وَالسَّبَرِ“ یعنی
فلاں خوش ہیئت صاحب جمال ہے۔
”قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ سَبَرُ فُلَانٍ“

اس پر فلاں کی مشابہت غالب ہے۔
السَّبَرُ - دشمنی۔
السَّبَرَةُ - ٹھنڈی صبح۔ ج۔ سَبَرَات، أَسْبَارُ

السَّبَرِ وَالسَّبَرَةِ - ایک لمبے بازوؤں والا
شکاری پرندہ۔

السَّبَارُ - ج۔ سُبُر - دَوِ الْمَسْبُورِ وَالْمَسْبَا
ج۔ مَسَايِدُ وَمَسَايِدُ - زخم کی
گہرائی معلوم کرنے کی سلاخی۔

السَّبَارَةُ - ایک قسم کا جہاز۔
السَّبَارَةُ - منسوب بہ سَابُور - بڑھیا
کھجور۔ باریک بناوٹ کی مضبوط زرہ۔

السَّبُورَةُ - سیٹ، تختی۔
السَّبَرُ - بَیْتُ وَحْنٍ وَجَمَالٍ -
السَّبَارُ - زخم کی گہرائی معلوم کرنے

والا۔ مَسْبَرَةٌ - الْجَمْرُ - زخم کی گہرائی
السَّبَرَةُ - آزمائش۔ جَابِجٌ - الْمَسْبُورُ
مفع۔ خوش شکل و بیہیت۔

سَبَرَت - الرَّجُلُ - قناعت کرنا۔
السَّبَرَتُ وَالسَّبَرُوتُ وَالسَّبَرِيَّتُ -
السَّبَرَاتُ - ممکن و محتاج۔ ج

سَبَارِيَّتُ وَسَبَارٍ - السَّبَرُوتُ
تھوڑی چیز۔ اُردو کا چٹیل۔ رِیَسْتَان۔
السَّبَرَتُ - بے بال والا۔

سَبَسَبَ - الْمَاءَ - پانی بہانا۔ الرَّجُلُ
ہلکی رفتار سے چلنا۔ بُرَى کالی دینا۔
تَسَبَسَبَ - الْمَاءَ - پانی کا بہنا۔

السَّبَسَبُ - بیابان۔ ہموار وسیع میدان۔
ج۔ سَبَايِبُ۔
سَبَطَ (س) سَبَطًا وَسَبَطًا وَسَبُوطًا -
وَسَبَطَ (س) سَبُوطًا وَسَبَاطَةً

— السَّعْرُ - بالوں کا سیدھا ہونا۔
سَبَطُ (ڈ)، السَّطْرُ - تیز عالم گیر بارش
برسنا۔

سُبَط - سبطا - بخار ہونا۔
سَبَطَتِ - الناقَةُ اذ النَجَّةُ - اونٹنی
یا بھیڑ کا نام تمام بچہ گرانا۔ صفت۔
(مُسَبَط)

اَسْبَطَ - خوف سے خاموش رہنا۔ کمزور
ہونا۔ گر کر نہ ہل سکا۔ پاؤں زمین
زمین سے چٹنا۔ فِي نَوْمِهِ نِينَد
میں آنکھیں بند کرنا۔ عَيْنُ الْأَمِيرِ
غفلت برتنا۔

السَّبَطُ - اولاد کی اولاد۔ یہ زیادہ تر نواسے
کے لیے مخصوص ہے جس طرح حَفِيدٌ
پوتے کے لیے۔ مِنَ الْيَهُودِ
یہود کا قبیلہ۔ ج۔ اَسْبَاطُ۔

السَّبَطُ وَالسَّبَطُ سیدھے بال۔ بہت
بارش۔ ج۔ سَبَاطُ کہتے ہیں "هُوَ
نَبَطُ الْيَهُودِ" اوسبَطُ الْبَنَانِ
یعنی وہ کریم و فیاض ہے "وَسَبَطُ
الْجِسْمِ" موزوں ساخت، اور
خوش قامت آدمی۔

السَّبَطُ - تروتازہ نھی گھاس۔ ایک
قسم کا پودہ۔ واحد (السَّبَطَةُ)
شَعْرُ سَبَطُ - سیدھے بال۔ بہت
شاخوں والا درخت۔

سَبَاطُ - بخار۔
سَبَاطُ - ماہ فروری۔
السَّبَاطَةُ - کنگھی کرنے سے گرے ہوئے
بال۔ کوڑا کرکٹ۔ گھورا۔

السَّابُوطُ - ایک سمندری جانور۔
السَّابَاطُ - وہ چھت جو دو مکانوں کے
درمیان راستہ پر ہو۔ ج۔ سَوَابِيطُ
وَسَابَا طَاتُ -
السَّبَطَانَةُ - نئے کی طرح کی نکلی جس میں

غلہ رکھ کر پرندہ کو مارتے ہیں۔
اَسْبَطَارًا - دراز ہو کر
لیٹنا۔

اَسْبَطَرَتِ الْإِزِيلُ - اونٹوں کا تیز چلنا
— لَهُ الْإِيلَادُ - کسی کے لیے ملک کا
درست ہونا۔

السَّبَطُ - تیز فہم۔ ذہین، لمبا۔ اَسَدُ
يَسْبَطُ - جست لگاتے وقت دراز
ہونے والا شیر۔

السَّبَاطُ وَالسَّبِيطُ - دراز قامت آدمی
السَّبِيطُ - مغروانہ چال۔

سَبَعُ دَن، سَبْعَا - القوم۔ ساتواں
ہونا۔ مال کا ساتواں حصہ لینا۔

الْحَبْلُ - رسی کو سات لڑی کا کرنا۔
— الشَّيْءُ - سات بنانا۔ الرَّجُلُ
غیبت کرنا۔ گالی دینا۔ الشَّيْءُ -
چُرانا۔ الذُّبُّ الْخَنَفُ - بھیڑیے
کا بکری کو چھڑانا۔

سَبَعَةُ - سات بنانا یا سات گوسٹے
وال بنانا۔ الإِنَاءُ - برتن کو سات
بار دھونا۔ اَللَّهُ لَكَ - اللہ تجھ کو
سات مرتبہ یا سات گنا اجر دے یا
سات اولاد دے۔ الْمَرْأَةُ -
عورت کا ساتویں مہینے بچہ جننا۔

القَوْمُ - قوم کا پورے سات سو
افراد پر مشتمل ہونا۔

سَابِعَةُ مُسَابَعَةٌ وَسَبَاعًا - گالی دینا۔
اَسْبَعُ - القوم۔ سات ہونا۔ الرَّابِعِي
چرواہے کے مویشی میں درندہ کا گود
پڑنا۔ الشَّيْءُ - سات بنانا۔ کرنا۔

— الْمَكَانُ - کسی جگہ درندوں کا بہت
ہونا۔ هُكْسِي كُوْدَرْنَه كَاكُوْشْت
کھلاتا۔ الرَّجُلُ - کسی کے اونٹوں
کا گھاٹ پر ساتویں دن جانا۔ ایسے
اونٹوں کو (سَوَابِيعُ) کہتے ہیں۔

اَسْبَعُ - الشَّيْءُ - چُرانا۔ الْخَنَفُ -
بکری کو چھڑانا۔ القَوْمُ - سات ہونا۔
السَّابِعُ - فَا - ج۔ سَبْعَةٌ وَ سَابِعُونَ -
ساتواں۔

سَبْعَةُ - سات۔ مَوْنُ سَبْعُ -
السَّبْعُ - مَوْنُ - سَبْعَةُ - يَوْمِ
السَّبْعِ - قیامت کا دن۔ اَسْبَعُ
المَثَانِي - سورة فاتحہ یا سات پہلی
سورتیں۔

السَّبْعُ وَالسَّبْعُ وَالسَّبْعُ - درندہ
ج۔ اَسْبَعُ وَ سَبَاعٌ وَ سَبُوعٌ وَ
سَبُوعَةٌ - مَوْنُ سَبْعَةٍ - و
سَبْعَةٌ - السَّبْعُ مِنَ الطَّيْرِ -
شکاری پرندہ۔

السَّبْعُ - ساتواں حصہ۔ ج۔ اَسْبَاعُ -
حِجَّتِي السَّبْعِ - ساتویں دن آنے
والا بخار۔

السَّبْعُ - اونٹوں کا ساتویں دن گھاٹ پر آنا۔
السَّبَاعِيُّ - سات گوسٹے والا۔ سات
حرفوں والا۔ بَرَا اَوْنَطُ - سَبَاعِي
الْبَدَنِ - پورے قد والا آدمی۔
مَوْلُودٌ سَبَاعِي - ساتویں مہینے پیدا
ہونے والا بچہ۔

السَّبْعُونَ - مِنَ الْعَدَدِ - ستر (دندر و مَوْنُ)
السَّبِيعُ - ساتواں حصہ۔
الْأُسْبُوعُ - ہفتہ۔ ج۔ اَسَابِيعُ -
أَرْضٌ مَسْبُوعَةٌ - بہت درندوں
والی زمین۔

الْمُسْبَعُ - سات ماہ کا بچہ، وہ بچہ جس کی
ماں مر گئی ہو اور غیر عورت اس کو دودھ
پلائے۔ منہ بولا بیٹا۔
الْمُسْبُوعُ - درندے سے مرعوب۔

سَبْعُ دَن، سَبُوعًا - الْعَيْشُ - زندگی کا
فراز و وسیع ہونا۔ الثَّوْبُ - کپڑے
کا زمین تک دراز ہونا۔ الشَّيْءُ -



پورا ہونا۔ اِلٰی وَطَنِهِ۔ وطن کی طرف مائل ہونا۔ الْمَطَرُ۔ بارش کا زمین سے قریب ہونا۔
 اَسْبَغَ۔ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْبَرَكَاتُ۔ اللہ کا کسی پر نعمت کو کامل کرنا۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے کو کشادہ کرنا۔ لِبَاسُكَ۔ لِبَاسُكَ۔ کسی پوری زہ پہنا۔ لَكِ الْبَقِيَّةُ۔ کسی پر فراخی سے خرچ کرنا۔
 السَّابِقُ۔ خا۔ دُرْعُ السَّابِقِ۔ پوری زہ۔ ج۔ سَوَابِقُ۔ رَنْبُ سَابِقُ۔ لمبی دم۔ سَابِقُ الْاَلْيَتَيْنِ۔ بڑے سرین والا۔
 السَّبْقَةُ۔ فراخی، آسودہ حالی۔ التَّسْبِيغُ وَالتَّسْبِيغَةُ۔ زہ کا وہ حصہ جو خود کو زہ کی کڑیوں سے ملاتا ہے اور گردن کی حفاظت کرتا ہے۔ ج۔
 تَسَابُغُ۔ سَبْعَلُ۔ اِسْبَعَلُ الثَّوْبُ۔ کپڑے کا پانی سے تر ہونا۔ بالوں کا تیل سے تر ہونا۔ الْمُسْبِغُ۔ کشادہ۔
 سَبْقَةُ رَن (ض) سَبْقًا۔ اِلٰی كَذَا۔ آگے بڑھنا۔ هُ عَلٰی كَذَا۔ غائب ہونا۔ سَبَقَ عَلٰی قَوْمِهِ۔ کرم و فیاضی میں قوم سے بڑھ جانا۔ صفت (سابق) ج۔ سَابِقُونَ وَسَبَاقُ۔ سَبْقَةُ۔ شرط لینا یا دینا۔ الشَّاقَةُ۔ بکری کا قبل از وقت بچہ گرانا۔ الطَّيْرُ۔ پرندہ کے پاؤں میں بندھن ڈالنا۔ سَبَقَ الْبَدْرَةُ بَيْنَ الشَّعْرَاءِ۔ شعراء کے درمیان دس ہزار کی پھیلی بطور انعام رکھنا کہ جو اپنے ساتھیوں پر غالب آجائے وہ لے لے۔
 اَسْبَقَ۔ الْقَوْمُ اِلٰی الْأَمْرِ۔ جلدی کرنا۔ سَبَقَتْ كَرْنَا۔ سَابِقَةُ۔ سَابِقًا وَهَسَابِقَةً۔ مقابلہ پر

دوڑنا۔ دوڑنے میں آگے بڑھ جانا۔ تَسَابَقَ وَاسْتَبَقَ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ اِسْتَبَقَ الْبَابَ اَوْ اِلٰی الْبَابِ۔ دونوں نے دروازہ کی طرف جلد بڑھ جانے کی کوشش کی۔ اِسْتَبَقَا الصِّرَاطَ۔ راستہ سے بھٹک جانا اور اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا۔
 السَّبَقُ۔ ج۔ اَسْبَاقُ دُرِ السَّبْقَةِ۔ شرط جو آگے نکل جانے پر رکھی جاتی ہے۔ السَّابِقُ۔ خا۔ دوڑنے میں جیتنے والا گھوڑا اس کو المَجْتٰی بھی کہتے ہیں۔ ج۔
 سَبَاقٌ وَسَابِقُونَ۔ السَّابِقَةُ۔ مُؤْنَةُ السَّابِقِ۔ اَقْدَمِيَّتُ پھل۔ ج۔ سَوَابِقُ۔ وِسَابِقَاتُ۔ السَّوَابِقُ۔ گھوڑے۔ السَّبَاقُ۔ بہت آگے بڑھنے والا۔
 السَّبَاقُ۔ مَص۔ گھوڑو۔ بندش، قید۔ السَّبُوقُ وَالْمُسْتَبَقُ۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ آگے بڑھنے والا گھوڑا۔
 سَبِكُ رَن (ض) سُبُكَ وَسَبَكُ۔ الْفِضَّةُ۔ چاندی پگھلا کر سانچہ میں ڈھالنا۔ الْكَلَامُ۔ کلام کو عمدہ بنانا۔ سَبَكَةُ التَّجَارِبِ۔ تجربوں کا کسی کو منب بنانا۔
 اِنْسَبَكَ۔ الْذَهَبُ غَوْهً۔ پگھلا کر قالب میں ڈالا جانا۔ ڈھلنا۔ السَّبِيكَةُ۔ پگھلا ہوا۔ میل پکیل سے صاف السَّبِيكَةُ۔ چاندی وغیرہ کا ڈالا۔ جو پگھلا کر قالب میں ڈالا گیا ہو۔ ج۔ سَبَايَاكَ الْمَسْبُوكُ۔ پگھلانے اور ڈھالنے کی جگہ ج۔ مَسَايَاكَ۔
 سَبَلَةُ رَن (ض) سَبَلًا۔ گال دینا۔ سَبَلُ۔ الْمَالُ۔ مال کو اللہ کے راستہ میں لگانا۔ خیرات کرنا۔ السَّيْلُ۔

مبارک کرنا۔ السَّيْلُ۔ پردہ چھوڑنا۔ اَسْبَلُ۔ السَّيْلُ۔ پردہ لٹکانا، چھوڑنا۔ الدَّمْعُ۔ آنسو ہونا۔ الْمَاءُ۔ پانی ہونا۔ الصَّرِيقُ۔ راستہ کا بہت چلتا ہوا ہونا۔ السَّمَاءُ۔ آسمان کا بارش برساتنا۔ الدَّمْعُ وَالْمَطَرُ۔ آنسو یا بارش کا بکثرت ہونا۔ بَرَسْنَا۔ الزَّرْعُ فصل کا خوشہ نکلنا۔ عَلٰی فُلَانٍ۔ کسی کے برخلاف بہت کچھ کرنا۔
 السَّبَلُ۔ وہ بارش جو بادل سے نکل آئی ہو، مگر ابھی زمین پر نہ پڑی ہو۔ آنکھ کی ایک بیماری جس میں آنکھ پر پردہ چھا جاتا ہے، بننے والی بارش یا خون۔ خوشہ، بالی، ناک۔ اَسْبَلُ الدَّمْعُ اَوْ الْمَطَرُ۔ کا اسم۔
 السَّبْلَةُ۔ اوپر کے لب کے درمیان کا دائرہ۔ داڑھی کا اگلا حصہ۔ ج۔ سَبَالُ رَن (ض) السَّبُولَةُ وَالسَّبُولَةُ۔ خوشہ کہتے ہیں "مَلَأَ الْاِنَاءَ اِلٰی سَبْلَتِهِ" برتن کو کنارہ تک بھر دیا۔ وَجَبَر سَبْلَتُهُ۔ اس نے اپنے کپڑے گھیسے وَجَاءَ وَقَدْ نَشَرَ سَبْلَتُهُ۔ اس نے آکر دھکی دی۔ وَبَعِيرٌ حَسَنُ السَّبْلَةِ۔ باریک کھال والا اونٹ۔
 السَّبِيلُ۔ راستہ یا کھلی ٹرک (مذکورہ) مؤنث، ج۔ سَبَلٌ وَسَبْلٌ وَاسْبَلُ۔ وَاسْبَلَةُ دُسْبُولُ۔ ابن السَّبِيلِ۔ مسافر۔ سَبِيلُ اللّٰهِ۔ جہاد طلب علم حج یا ہرام خیر جس کا حکم باری تعالیٰ سے ملا ہو۔ کہتے ہیں "لَيْسَ لَكَ عَلٰی سَبِيلٍ" تم مجھ سے باز پرس نہیں کر سکتے، یعنی تمہارے لیے مجھ پر کوئی حجت نہیں۔
 "لَيْسَ عَلٰی فِی كَذَا سَبِيلٌ" مجھ سے اس کے متعلق کوئی باز پرس نہیں۔ السَّبِيلَةُ۔ راستہ یا واضح راستہ۔

السَّائِلَةُ: بہت چلنے والا راستہ۔
 سَبِيلٌ سَائِلَةٌ: راہ گزروں کی
 جماعت۔ ج۔ سَوَائِلُ۔ عَيْنُ
 سَبْلَاءٍ: لمبی پٹکوں والی آنکھ۔
 اِمْرَأَةٌ سَبْلَاءٌ: مونچھوں والی
 عورت۔
 السَّبِيلُ وَالْمُسْبِلُ وَالْمُسْبِلُ
 وَالْمُسْبِلُ: مِنَ الرِّجَالِ
 لمبی مونچھوں والا آدمی۔
 اَسْبَنَتْ: الْمَرْأَةُ عَوْرَتِهَا بِمِشْرِ
 سیاہ تھنڈا ہندھنا۔
 السَّبْنَةُ وَالسَّبْنَةُ: عَرْمَةٌ اَقَمْتُ
 عِنْدَكَ سَبْنَتًا: میں اس کے
 پاس عرصہ تک ٹھہرا رہی۔
 السَّبْنِيَّةُ: عورتوں کا سیاہ تہبند۔
 السَّبْنَتِي: دیر آگے بڑھنے والا چیتا۔
 ج۔ سَبَانِيَّتٌ وَسَبَانِيَّةٌ
 سِيَّةٌ سُبَّاهَا وَسَبَّهَ لَيْسِيَّهَا: بڑھاپے
 کی وجہ سے عقل زائل ہونا۔ صفت
 (مَسْبُوءٌ وَمُسْبَتٌ)
 السَّبِيَّةُ: بڑھاپے کی وجہ سے بے عقلی۔
 رَجُلٌ سَبِيٌّ وَسَبَاةٌ: متکبر
 آدمی۔
 السَّبَاةُ: سکتہ، عقل کا زوال۔ رَجُلٌ
 سَبَاهِيٌّ: بڑھاپے کی وجہ سے عقل
 کھویا ہوا۔
 السَّبِيَّةُ: فَصِيحُ اللِّسَانِ
 سَبَّهْلٌ: کہتے ہیں ”جَاءَ الرَّجُلُ
 سَبَّهْلًا“ آدمی بغیر ہتھیار وڈڈے
 کے آیا، یعنی بے پرواہ ہو کر آیا۔ یا بغیر
 کسی کام کے آیا۔ ”هُوَ يَمْشِي
 سَبَّهْلًا“ وہ بیکار آتا جاتا ہے۔
 سَبِيٌّ لَيْسِيٌّ سَبِيٌّ وَسَبَاةٌ
 الْعَدُوُّ وَدُشْمَنٌ كَقَيْدِ كَرْنَا: الرَّجُلُ
 دُور کرنا۔ جلا وطن کرنا۔ الْخَمْرُ

شراب کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے
 جانا۔ الْحَاظِرُ الْمَاءَ: کھودنے
 والے کا پانی تک پہنچانا۔ فَلَانًا
 کسی کو دامِ محبت میں لینا۔
 اِسْتَبَى اِسْتَبَاءً: الْعَدُوُّ وَدُشْمَنٌ
 کو قید کرنا۔ قَلْبُ فَلَانٍ: کسی کے
 دل کو دامِ محبت میں پھانسا۔
 الْخَمْرُ: شراب کو ایک شہر سے
 دوسرے شہر لے جانا۔
 تَسَالَى: الْقَوْمُ: بعض کا بعض کو قید
 کرنا۔
 تَسَبَّى: فَلَانٌ بِفُلَانٍ: کسی سے
 محبت کا اظہار کر کے اپنی طرف مائل کرنا۔
 السَّبِيُّ: قیدی، کہا جاتا ہے ”جَاؤْ
 بِسَبِيٍّ كَثِيرٍ“ زیادہ تر اَسْرُ
 کا لفظ مردوں کے لیے اور سَبِيٌّ
 کا لفظ عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔
 ج۔ سُبِيٌّ: سَبِيٌّ الْحَيَاتِيَّةُ: سانپ
 کی کینچلی۔
 السَّبِيَّةُ: قیدی عورت۔ ایک شہر سے
 دوسرے شہر بھیجی ہوئی شراب۔ موتی۔
 السَّبِيُّ وَالسَّبَاةُ: وہ لکڑی جس کو
 سیلاب ایک جگہ سے دوسری جگہ
 لے جائے۔
 السَّتُّ: عیب۔ بُرَى كَقَتْلُو
 اَلْيَسْتَةِ: چھ۔ مذکر کے لیے مُؤَنَّثُ كِ
 لے بست ہے۔
 السَّاتُّ: چھٹا۔
 اَلْسَتُونَ: ساٹھ (مذکر و مؤنث)
 سَتَرْدَنُ سَتْرًا وَسَتْرًا وَسَتْرًا
 الشَّيْءُ: ڈھانکنا، چھپانا۔
 سَاتَرَهُ مَسَاتَرَةً: الْعَدَاةُ: دُشْمَنِي
 چھپانا۔
 تَسَتَّرَ وَاسْتَتَرَ وَالتَّسَتَّرَ: ڈھانکنا
 چھپنا، کہتے ہیں ”هُوَ لَا يَسْتَرُ مِنْ

اللَّهِ يَسْتَرُ“ وہ اللہ تعالیٰ سے
 نہیں ڈرتا۔
 اَلْيَسْتَرُ: پردہ، خوف، حیا، ج۔ سَتُورٌ
 وَاسْتَارُ: مَالَهُ سِتْرٌ وَلَا جِزْرٌ
 وہ نہ عقل رکھتا ہے نہ حیا و شرم۔ و
 اَهْتَكِ اللّٰهُ يَسْتَرُكَ“ اللہ تعالیٰ
 نے اس کے عیبوں اور برائیوں کو بے
 نقاب کر دیا۔
 اَلْيَسْتَرُ: مَصْ: ڈھال۔
 اَلْيَسْتَارُ: پردہ۔ ج۔ سَتْرٌ: مَدَّ
 اَللَّيْلُ يَسْتَارُكَ: رات نے اپنی
 تاریکی کا پردہ پھیلا دیا۔
 اَلْيَسْتَرَةُ: ج۔ سَتْرٌ وَ اَلْيَسْتَارَةُ
 ج۔ سَتَائِرُ: پردہ۔ سَتْرَةُ السَّطْحِ
 عِجْتِ پر پردہ کی دیوار۔
 اَلْيَسْتِيرُ: چھپا ہوا۔ پاکدامن۔ ج۔ سَتْرَاءُ
 شَجَرٌ سَتِيرٌ: بہت شاخوں والا
 درخت۔
 اَلْمُسْتَوْرُ: مَفْع: پاک دامن۔ ج۔
 مَسْتَوْرُونَ وَمَسَاتِيرُ
 اَلْيَسْتَارُ: پردہ پوش۔ بہت چھپانے والا۔
 یہ صفات خداوندی میں سے ہے۔
 اَلْيَسْتَارُ: مِنَ الْعَدَدِ: چار۔ رَفِي
 اَلْوَزْنِ: چار مثقال۔ ج۔ اَسَاتِيرُ
 وَ اَسَاتِيرُ
 اَلْيَسْتَرُ: وَ اَلْيَسْتَارَةُ: پردہ۔
 اَلْمُسْتَرُ: مَفْع: جَارِيَةٌ مُسْتَرَةٌ
 پردہ نشین عورت۔
 اَلْيَسْتَوِيُّ: کھولنا، جعلی روپیہ۔
 اَلْمُسْتَقْلَةُ وَالْمُسْتَقْلَةُ: دراز آستین کی
 پوشتین، چنگ وغیرہ بجانے کا آلہ۔
 سَتَلْ رَنَ سَتْلًا وَتَسَاتَلْ وَ اَلْيَسْتَلُ
 وَ اَلْيَسْتَلُ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے
 کے پیچھے سلسلہ وار نکلنا۔ اَلْيَسْتَلُ
 موتیوں کا لگا تار گنا، بکھڑا۔ اَلْيَسْتَلُ



آنسو کا قطرے قطرے ٹپکنا۔ صفت
(سَاتِلٌ)
سِتْلَةٌ (س) سِتْلٌ وَسَاتِلَةٌ۔ پیروی کرنا۔
السَّتْلُ۔ مص۔ عقاب یا اس کے یا گردہ
کے مشابہ ایک جانور۔ ج۔ سِتْلَانٌ
وَسِتْلَانٌ
السَّتَالَةُ۔ روی پھیر۔
السَّتْلُ۔ تنگ راستہ۔ ج۔ مَسَاتِلُ۔
أَسْتَنَ۔ الرجلُ فِي السَّنْدِ کسی کا
قحط سالی میں پڑنا۔
الْأَسْتَنُ وَالْأَسْتَانُ۔ بوسیدہ درخت
کی جڑیں۔
الْأَسْتَانَةُ۔ شمر قسطنطنیہ۔
سَتَهُ (ف) سَتَهَا۔ الرجلُ پیچھے لگنا۔
کھوج لگانا۔ سرین پر مارنا۔
السَّتَهُ وَالسَّتَهُ وَالسَّتَهُ۔ سرین۔
ج۔ أَسْتَاةٌ۔
الْأَسْتَهُ وَالسَّتَاهِي۔ موٹے سرین والا۔
ج۔ سُنْتُهُ وَسُنْهَانٌ وَسَتَاهِيٌّ۔
مؤنث۔ سَتَهَاءٌ۔
سَتَارِدٌ سَتَوَا۔ جلدی کرنا۔
اسْتَى وَسَتَى۔ الثَّوْبُ۔ کپڑا بننے کے
لیے تانے کو پھیلانا۔
السَّتَا۔ کپڑے کا تانا۔ بھلائی۔ "تَالَ
مِنْهُ سَتَا" اس نے اس سے
بھلائی پائی۔
الْأُسْتَى۔ تانا تانا ہوا کپڑا۔
سِتَاةٌ الثَّوْبُ۔ کپڑے کا تانا۔ کہتے ہیں
"مَا أَنْتَ لِحَمَةٍ وَلَا سِتَاةٌ" یعنی
تو نہ نفع کا ہے نہ نقصان کا۔
سَجَرٌ (ن) سَجَا۔ پتلا پانچا نہ آنا۔
الْحَاظُ دیرالینہ۔
السَّجَّةُ وَالسَّجَاةُ۔ بہت پانی والا
دودھ۔
السُّجْحُ۔ پس ہوئی چھتیں، نیک نفوس۔

المُسَجَّةُ۔ لپائی کے کام میں آنے والا لکڑی
کا ایک اوزار۔
سَجَحَتْ (ف) سَجَحًا۔ الحَمَامَةُ۔ کبوتری
کا کوکو کرنا۔ و سَجَجَ، لَكُ
بِکَلَامٍ۔ اشارہ اور کرنا یہ سے بات کرنا
سَجَجَ (س) سَجَجًا وَتَجَاحَةً۔ مناسب
دور میانی و بازی رکھنا۔ کم گوشت ہونا۔
— الخَدُّ رُضَارُهُ کازرم و ملائم ہونا۔
— خُلُقُهُ۔ نرم اخلاق ہونا۔ کہتے
ہیں "فِي عَقْلِهِ رَجَاحَةٌ وَفِي خُلُقِهِ
سَجَاحَةٌ"۔
أَسَجَجَ۔ الوَالِي۔ معاف کرنا۔
الرجُلُ۔ نرم و لطیف کلام والا ہونا۔
کہتے ہیں "أَذْأَسَلْتُ فَاسَجَجْتُ"
یعنی جب تم سوال کرو تو نرم اور دلیند
الفاظ بولو۔
السَّجَجَ۔ لَكُ بِكَلَامٍ۔ سخاوت و جواغری
کیا جانا۔
السُّجُجُ۔ نرم و آسان۔ اندازہ۔ کہتے ہیں
"بُيُوتُهُمْ عَلَى سِجَجٍ وَاحِدٍ" ان
کے گھر ایک اندازہ کے ہیں۔ و السُّجُجُ
رُطْبٌ کا وسطی حصہ۔ السَّجَجَةُ وَ
السَّجِيحَةُ۔ خصلت، خلق، فطرت،
طبیعت۔ و السَّجِيحَةُ۔ اندازہ
"رُكِبَ سَجِيحَةٌ رَاسِيَةٌ" اس
نے اپنے لیے ایک رائے پسند کی اور
اسی پر کاربند ہوا۔
الْأَسَجَجُ۔ خوبصورت متناسب اعضاء والا
مؤنث سَجَجَاءُ۔ ج۔ سَجَجٌ۔
السَّجَاةُ۔ سامنے۔ السَّجَاةُ۔ ہوا۔
سَجَدَ (ن) سَجُودًا۔ عاجزی و خاکساری
سے جھکنا۔ عبادت میں پیشانی و ناک
زمین پر رکھنا۔ صفت (سَاجِدٌ) ج۔
سَجْدٌ وَسُجُودٌ۔ مؤنث سَاجِدَةٌ
ج۔ سَاجِدَاتٌ وَسَوَاجِدٌ سَاجِدٌ

الْمُنْحَرُ۔ خاکساری کرنے والا۔ ذلیل و
پست۔ "عَيْنٌ سَاجِدَةٌ" جھکی ہوئی
آنکھ۔ "نَخْلَةٌ سَاجِدَةٌ" جھکا ہوا
کھجور کا درخت۔
سَجَدَتْ (س) سَجْدًا۔ رَجُلُهُ۔ پاؤں
کا سوجنا۔
أَسَجَدَ۔ سر جھکانا۔ عَيْنُهُ۔ نگاہ
نیچی رکھنا۔
السَّجَادُ۔ بہت سجدہ کرنے والا۔
السَّجْدَةُ۔ سَجْدٌ کا اسم۔
السَّجَادَةُ وَالْمُسَجَّدَةُ۔ جلے نماز۔
مصنوعی۔
الْمُسَجَّدُ وَالْمُسَجَّدُ۔ سجدہ گاہ۔ عبادت
کی جگہ۔ ج۔ مَسَاجِدُ۔ الْمُسَجَّدُ
الْحَرَامُ۔ بیت اللہ شریف۔ الْمُسَجَّدُ
الْأَقْصَى۔ مسجد بیت المقدس۔
الْمُسَجَّدَانِ۔ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ
کی دو مسجدیں۔
الْمُسَجَّدُ۔ انسان کی پیشانی۔ ج۔ مَسَاجِدُ۔
سَجَرَدَن، سَجَرَا۔ التَّنُورُ۔ تند کو
اندھن سے گرم کرنا۔ الْمَاءُ الْهَوْرُ۔
پانی کا نہر کو بھرنا۔ الْبَحْرُ۔ سمندر کا
جوش مارنا۔ الْمَاءُ فِي خَلْقِهِ۔ پانی
خلق میں ڈالنا۔ الْكَلْبُ۔ کہتے کے
گلے میں لکڑی باندھنا۔ الشَّيْءُ۔
بھینسا (سَجَرٌ أَوْ سَجُورًا) النَّاقَةُ۔
اوستنی کا لمبی آواز نکالنا۔
سَجَرٌ۔ الْمَاءُ۔ پانی جاری کرنا۔
التَّنُورُ۔ تند کو اندھن سے بھر کر
گرم کرنا۔ النَّاقَةُ۔ اوستنی کا لمبی
آواز نکالنا۔
سَجَرٌ۔ الْبَحْرُ۔ سمندر کا پڑھنا۔ موجیں
مارنا۔
سَاجِرَةٌ۔ مخلص دوست بننا۔
السَّجَرُ۔ الْإِنَاءُ۔ برتن کا بھرنا۔ الْإِبِلُ



فی سیرھا۔ اونٹوں کا آگے پیچھے ایک قطار میں چلنا۔

السَّجُورُ۔ مص۔ بادل کی گرج، رعد کی آواز۔

سَجْرٌ سَجْرٌ۔ بھرا ہوا کنواں

السُّجْرَةُ۔ نر کو بھر دینے والا پانی۔ ج

سَجُورٌ۔ والسَّجْرِ فی الْعَیْنِ

آنکھ کی سُرخی۔

السَّاجِدُ۔ فا۔ ہر چیز کو بھر دینے والا سیلاب

وہ جگہ جس کو سیلاب آکر بھر دے۔

السَّاجُورُ۔ کتے کے گلے میں لٹکائی جانے

والی لکڑی۔ کتے کے گلے کا پٹا یا طوق

ج۔ سَوَاجِرٌ۔

المُسَجَّرُ والسَّجُورُ۔ تیز کو گرم کرنے کا

ایندھن (لکڑی وغیرہ)

السَّجِیْرُ۔ مخلص دوست۔ ج۔ سَجَوَاءُ۔

الْأَسْجَرُ۔ آنکھ میں سُرخی رکھنے والا۔

مُؤَنَّفٌ سَجَوَاءُ۔ خالص کچڑ والا

تالاب۔ شیر۔ شَعْرٌ مُسَجَّرٌ و

مُنَسَّجٌ۔ لٹکے ہوئے بال۔

المُسَجَّرُ۔ وہ دریا وغیرہ جس کا پانی

تہ نشین ہو گیا ہو۔

المُسَجُّورُ۔ فا۔ ساکن اور بھرا ہوا خالی

دودھ سے زائد ہو۔ المسَجُّورُ

پروئے ہوئے موتی۔ لڑی سے بکھرے

ہوئے موتی۔ لَوْلُوَّةٌ مُسَجَّوَةٌ

بہت آباد موتی۔

سَجْسُ (س) سَجَسَا۔ الماءُ پانی کا مکد

ہونا۔ گدلا اور متغیر ہونا۔ صفت۔

(سَجْسٌ و سَجْسٌ و سَجْسٌ)

سَجَسَ۔ المنہلُ۔ چشمہ کا بدبودار اور

خراب ہونا۔

السَّجْسُ۔ خرابی۔ گدلا پن۔ کتے میں لا

الْبَتْلُ سَجْسٌ الْکِلَیُّ۔ میں

تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔

السَّجْسَجُ۔ وہ زمین جو نہ بہت سخت

ہو، نہ بہت نرم۔ صبح صادق سے سورج

نکلنے تک کا وقت۔ کتے میں "یوم"

سَجْسَجٌ۔ جبکہ دن میں نہ تو تکلیف

دہ گرمی ہو نہ ایذا رساں سردی ہو۔

هَوَاءٌ سَجْسَجٌ۔ وہ ہوا جو نہ

بہت گرم ہو، نہ بہت سرد۔ معتدل ہوا

ج۔ سَجَارِیْمٌ و سَجَا سِیْرٌ۔

سَجَعٌ (ر) سَجَعًا۔ الخطیبُ۔ مقفی

کلام کہنا۔ صفت سَاجِعٌ و سَجَّاعٌ

و سَجَّاعَةٌ، الْحَمَامَةُ۔ فاختہ یا

کبوتر کا کوکرنا۔ صفت سَاجِعَةٌ

و سَجُوعٌ ج۔ سَجَّعٌ و سَوَاجِعٌ

الْمَنَاقَةُ۔ اونٹنی کا لمبی آواز

نکالنا۔

سَجَّعَ۔ بمعنی سَجَّعَ۔ (تشدید مبالغہ

کے لیے ہے)

السَّاجِعُ۔ فا۔ کلام یا رفتار میں درمیانی

چال چلنے والا۔ اس کی ضد جَائِرٌ

ہے۔ وَجْہٌ سَاجِعٌ۔ اچھی ساخت

کا معتدل چہرہ۔ نَاقَةُ سَاجِعَةٌ

طرب و مستی میں آواز نکالنے والی

اونٹنی۔

أَسَجَّعُ۔ مقفی کلام۔ ج۔ أَسَجَّاعٌ۔

السَّجَّعَةُ وَالْأُسْجُوعَةُ۔ مقفی کلام کا

ایک ٹکڑا۔ ج۔ أَسَاجِیْعُ۔

المُسَجَّعُ۔ مقصد۔

سَجَفَ (ر) سَجَفًا۔ البیتُ۔ مکان پر

پردہ لٹکانا۔

سَجَفَ (س) سَجَفًا۔ پتلی کروالا۔

أَسَجَفَ۔ الیسٹرُ۔ پردہ چھوڑنا۔

البیتُ۔ گھر پر پردہ لٹکانا۔

اللیلُ۔ رات کی تاریکی کا دراز

ہونا۔

السَّجْفُ وَالسَّجْفُ۔ ج۔ سَجُوفٌ و

أَسْجَافٌ و رَسْجَافٌ و السَّجِيفُ

نیچے سے چڑھا ہوا پردہ، دو پردے نیچے

سے کھلے ہوئے، دروازہ۔ ملے ہوئے

پردے۔ أَسْجَافٌ۔ گھٹ۔ سَجَافٌ۔

کتے میں "أَرْحَى اللَّیْلُ سَجُوفَةً"

یعنی رات نے اپنی تاریکی پھیلا دی۔

السَّجْفَةُ۔ رات کی ایک گھڑی۔

السَّجَافَةُ۔ پردہ، حجاب۔

سَجَلٌ (ر) سَجَلًا۔ یہ۔ کسی چیز

کو اوپر سے پھینکنا۔ الماءُ۔ پانی

گرانا۔ الکتَابُ۔ کتاب لگاتار

پڑھنا۔

سَجَلَةٌ۔ بالشیء۔ اوپر سے پھینکنا۔

سَجَلُ الرَّجُلِ۔ عندنامہ لکھنا۔

الْأَرْقَاقُ۔ اوراق کو ٹکڑوں وغیرہ

میں ضبط تحریر کرنا۔ الْقَاضِی

عَلِیْہِ۔ قاضی کا فیصلہ دینا۔ عَلِیْہِ

یَکْذَا۔ مشہور کرنا۔ لَہُ بَیْمَالِہِ۔

ثابت کرنا۔

سَاجَلَةٌ مُسَاجَلَةٌ و سِجَالٌ۔ رفتار

یا شعر گوئی میں کسی سے مقابلہ کرنا۔

أَسْجَلٌ۔ بڑا صاحب خیر ہونا۔ ۵

کسی کو بخشش دینا۔ الْحَوْضُ

حوض کو بھرنا۔ الْکَلَامُ۔ آزادانہ

بولنا۔ النَّاسُ چھوڑ دینا۔ لَہُ

الْأَمْرُ۔ لوگوں کو کوئی معاملہ سپرد

کر دینا۔ ان کے لیے مباح کر دینا۔

"أَسْجَلُ الْأَنْعَامِ فِي الزَّمْعِ"

جانوروں کو کھیتی میں چھوڑ دیا۔

تَسَاجَلًا۔ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔

لِالسَّجَلِ۔ مم۔ بڑا ڈول جس میں تھوڑا

بست پانی ہو۔ ڈول بھر بخشش۔ فیاض

آدمی۔ بڑا بخشن۔ ج۔ سِجَالٌ و

سُجُولٌ۔ کتے میں الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ



سَبَّحَ " یعنی لڑائی کا پانسہ ہلٹا رہتا ہے، آج ایک کو غلبہ ہے تو کل دوسرے کو۔ السَّبَّحُ حصہ۔ کہتے ہیں۔ "أَعْطَاهُ سَبَّحَهُ مِنْ كَذَا" یعنی اس نے اس کا حصہ دے دیا۔

السَّبَّحُ - معابدات کا رجسٹر۔ احکام و دعوؤں کے ضبط کرنے کا رجسٹر جس کو قاضی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ جوڈیش ریکارڈ۔ ج۔ سَبَّحَاتٌ - المسبَّحَاتُ - کنگر۔ سنگ گل۔ عَيْنُ سَبَّحُولٍ - بہت آنسو بہانے والی آنکھ۔

السَّبَّحِيلُ - حصہ۔ شَيْءٌ سَبَّحِيلٌ - بہت سخت چیز۔ ضَرْعٌ سَبَّحِيلٌ - لٹکا ہوا بڑا پتھر۔ دَلْوٌ سَبَّحِيلٌ - سَبَّحِيلَةٌ - بڑا ڈول۔ نَاقَةٌ سَبَّحَاءٌ - بڑے پھن والی اونٹنی۔ السَّوَجَلُ وَالسَّوَجَلَةُ وَالسَّاجِلُ وَشَيْءٌ كَاغْلَافٍ - ج۔ سَوَاجِلٌ -

المُسْجَلُ - مفع۔ ہر ایک کے لیے مباح و جائز۔ کہتے ہیں۔ "فَعَلْنَا" و الدَّهْرُ مُسْجَلٌ - یعنی ہم نے اس کام کو ایسے وقت انجام دیا جبکہ کوئی کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔

سَبَّحَ (ن) سَبَّحًا وَسَبَّحًا - الدَّمْعُ آنسو بہنا۔ صفت دَسَاجِحٌ - سَبَّحَ (ن) ض. سَبَّحًا وَسَبَّحًا - عَنِ الزَّمْرِ - دیر کرنا ٹالنا۔ بہت پہل کرنا (ض) ن. سَبَّحًا وَسَبَّحًا - الْعَيْنُ أَوْ السَّحَابَةُ الْمَاءِ - آنکھ کا آنسو یا بادل کا پانی بہانا۔

سَبَّحَ سَبَّحًا مَادَسَبَّحًا وَأَسَبَّحَ - الماءِ - پانی گرنا۔ بہنا۔ السَّبَّحَ - الماءِ - پانی کا گرنا۔ بہنا۔ - الْكَلَامُ كَلَامٌ كَامَرْتَبٍ هُونًا -

تَسَبَّحَاتٍ - الدَّمْعُ - آنسو کا بہنا۔ گرنا۔ السَّبَّحُ - پانی - آنسو - عَيْنٌ سَبَّحُولٌ - آنسو بہنے والی آنکھ۔ ج۔ سَبَّحُولٌ - نَاقَةٌ سَبَّحُولٌ و مَسَبَّحًا - بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ ج۔ سَبَّحُولٌ و مَسَاجِيمٌ - مَكَانٌ مَسَبَّحُولٌ - وہ جگہ جس پر بارش برسی ہو۔

سَبَّحَةُ (ن) سَبَّحًا - قید کرنا۔ سَبَّحَنَ الْعَصَمُ غَمَّ كُوْجِيَانَا - سَبَّحَنَ - الشَّيْءُ - بھاڑنا۔ السَّبَّحُونُ - قید خانہ۔ جیل۔ ج۔ لُجُونٌ - السَّبَّحَانُ - داروغہ جیل۔ جیلر۔ السَّبَّحِيْنُ - قیدی۔ ج۔ سَبَّحَانٌ و سَبَّحَانِي مَزْنٌ - سَبَّحِيْنٌ و سَبَّحِيْنَةٌ - ج۔ سَبَّحِيْنٌ و سَبَّحَانِشٌ - ضَرْبٌ سَبَّحِيْنٌ ایسی مار جو پٹنے والے کو زمین سے ہلنے نہ دے۔

السَّابَّحَةُ - مَزْنٌ السَّابَّحُونُ - پہاڑ میں پانی بہنے کی جگہ۔ ج۔ سَوَاجِحُ - السَّبَّحِيْنُ - دائم سخت، جہنم کی ایک وادی۔ کفاروں و بدکاروں کے اعمال نامے رہنے کا مقام کہتے ہیں۔ جَاءَ سَبَّحِيْنًا - وہ علانیہ آیا۔ السَّبَّحَلُ - آئینہ۔ چاندی کا ٹکڑا۔ ج۔ سَبَّاحِلٌ -

سَبَّاحِيْلٌ سَبَّحُولٌ سَبَّحُولٌ - اللَّيْلُ - رات کا سنسان ہونا خاموش ہونا۔ ہمیشہ رہنا۔ النَاقَةُ - اونٹنی کا لمبی آواز نکالنا۔

سَبَّحِيْلٌ سَبَّحِيْلَةٌ - الْمَيْتُ - مردہ پر چادر ڈالنا۔ کپڑے میں لپیٹنا، اس سے ہے "سَبَّحِيْلٌ مَعَايِبُ أَخِيكَ" یعنی اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاؤ۔

أَسَبَّحْتُ - اسْبَاحًا - النَاقَةُ - اونٹنی کا زیادہ دودھ والی ہونا۔ أَسَبَّحِيْلٌ - سمند کی موجوں میں سکون آنا۔ الموجِلُ کوئی چیز چھپانا۔

سَاحِي - چھونا۔ کہتے ہیں۔ "أَتَانَا بِالطَّعَامِ فَمَا مَسَاجِينَا" - وہ ہمارے پاس کھانا لایا مگر ہم نے اس کو نہیں چھوا۔ السَّاحِي - فَا - ساکن۔ قرار گرفتہ۔ نرم۔ عَيْنٌ مَسَاجِيْعَةٌ - جھکی ہوئی آنکھ۔

كَيْلَةُ سَاحِيَةٍ - سنسان خاموش رات۔ "أَمْرًا" سَبَّحَاءُ الطَّرَفِ - غیر متحرک آنکھ والی عورت۔ نَاقَةٌ سَبَّحَاءٌ - دودھ دینے کے وقت آرام سے کھڑی رہنے والی اونٹنی۔ رِيْحٌ سَبَّحَاءٌ - نرم ہوا۔

السَّبَّحِيَّةُ - طبیعت، خصلت، نطق۔ ج۔ سَبَّحِيَّاتٌ و سَبَّحِيَا - سَبَّحَ (ن) سَبَّحًا - بہت موٹا ہونا۔ پانی کو لگاتار بہت بہانا۔ ۵ - رمانا۔ "سَبَّحَهُ مِائَةً سَبَّحًا" اس نے اس کے سو کوڑے مارے۔ (د) سَبَّحًا و سَبَّحًا و سَبَّحًا - بہت بہنا۔ سَبَّحَتْ (ض) سَبَّحًا و سَبَّحًا -

الشَّاةُ - بکری کا موٹاپے کی وجہ سے ایسا چربی دار ہونا کہ گویا چربی اس سے ٹپکی پڑتی ہے۔ صفت دَسَاحٌ و سَبَّاحَةٌ - ج۔ سَبَّاحٌ و سَبَّاحٌ - السَّبَّحُ - اِبْطُلُ بَعِيْرٌ عَدَقًا - اونٹ کی بغل سے پینہ بہنا۔

السَّبَّحُ و السَّبَّحُ - خشک متفرق کھجوریں۔ السَّبَّاحُ - ہوا۔ گرہ ہوائی۔ سَبَّاحِيَّةٌ سَبَّحُولٌ - بہت بارش برسانے والا بادل۔ خَارَةٌ سَبَّحَاءٌ - دشمن پر اچانک مصیبت لانے والی لوٹ۔ عَيْنٌ سَبَّحَاءٌ - بہت آنسو والی آنکھ۔ فَرَسٌ

سَبَّحَاءٌ - بہت آنسو والی آنکھ۔ فَرَسٌ

مَسْمُومٌ عَمْدَةً تَزِرُ فِتْرًا رَهْوًا۔
سَحَبَةٌ (دفع) زمین پر گھسیٹنا۔ الرَّجُلُ
بہت کھانا پینا۔ "جَاءَ يَسْحَبُ
ذَيْلَهُ" وہ مغزورانہ چال سے آیا۔
تَسَحَّبَ۔ عَلَيْهِ۔ ناز کرنا۔ مِنْ
الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ۔ بہت کھانا پینا۔
فِي حَقِّ فُلَانٍ۔ کسی کے حق کو
چھین کر اپنے حق میں ملا لینا۔ لَسَحَبَ
گھسٹنا۔

السُّحْبَةُ۔ آنکھ پر آجانے والا پردہ جو نظر
کو کمزور کرتا ہے۔ وَ السَّحَابَةُ
تالاب میں باقی ماندہ پانی۔

السَّحَابُ۔ بادل۔ ج۔ سَحَبٌ۔ واحد
(سَحَابَةٌ) ج۔ سَحَابٌ۔ "أَقَمْتُ
عِدَّتَهُ سَحَابَةً يَوْمَئِذٍ" یعنی میں
نے سارے دن اس کے پاس قیام کیا۔
السَّحْبِلُ۔ فراخ وادی۔ بڑا ڈول۔ بڑی
مشک۔ بڑا پیٹ۔

سَحَتَ (دفع) سَحَتًا۔ حرام مال کمانا۔
۔ کسی کو ہلاک کرنا۔ بِيَخْ وَبُنْ سے
اکھڑنا۔ ذبح کرنا۔ تَحَتَّ النُّحْمُ
عَنِ اللَّحْمِ۔ چربی کو گوشت سے
چھیلنا۔ جَدَا کرنا۔ وَجَّهَ الْأَرْضَ
مٹانا۔

أَسَحَتَهُ۔ خراب کرنا۔ ہلاک کرنا۔ بِيَخْ
کئی کرنا۔ أَسَحَتَتِ التِّجَارَةُ۔
تجارت میں کھوٹ و حرام مل جانا۔
أُسْحِتَ۔ مال تباہ ہونا۔ مال کا محتاج
ہونا۔

السَّحْتُ۔ مص۔ بوسیدہ کپڑا۔ عذاب۔
کہتے ہیں "مَا لَهُ وَدَمُهُ سَحْتُ"
اس کی جان اور اس کا مال تلف کرنے
والے کے لیے مباح ہے۔

السُّحْتُ وَالسُّحْتُ۔ حرام و ناجائز
کافی نجس و ناپاک کماں جس سے عار

لازم آئے۔ مثلاً رشوت وغیرہ۔ ج۔
أَسْحَاتُ۔ مَا لُ سَحْتُ وَ سَحْتُ
وَسَحِيَّتُ وَ مَسْحُوتُ وَ مَسْحُوتُ۔
تلف شدہ مال۔ ہلاک شدہ مال۔

رَجُلٌ سَحْتُ وَ سَحِيَّتًا۔ بہت
کھاؤ اور سیر نہ ہونے والا آدمی۔
عَامٌ سَحْتُ۔ خشک سال اَرْضُ
سَحْتًا۔ روئیدگی سے خالی زمین۔

السُّحُوتُ وَالسَّحِيَّتُ۔ کم چکنائی
اور زیادہ پانی والا سَو۔ تھوڑی چیز۔
السُّحُوتُ وَالسَّحِيَّتُ۔ پُرانا کپڑا۔
السَّحِيَّتَةُ۔ سب کچھ ہالے جانے والا
بادل۔ ج۔ سَحَابَتُ۔

الْمَسْحُوتُ۔ الْجَوْفُ أَوِ الْمَعْدَةُ۔ نہ
سیر ہونے والا۔ بدبھمی سے تکلیف
اٹھانے والا۔ (معد)

سَحَجَهُ (دفع) سَحَجًا وَ سَحَجَةً۔
چھیلنا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ۔ ایک چیز
کو دوسری سے رگڑ کر چھیلنا۔ صفت
مفعول (مَسْحُوجٌ وَ سَحِيحٌ)
سَحَجَتِ الدَّابَّةُ۔ جانور کا
جا چلنا۔

تَسَحَجَ وَ التَّسَحَجَ۔ چھیلنا۔
السَّحَاجُ۔ بہت چھیلنے والا۔ "ذَمُّ
سَحَاجٍ" سخت زمانہ جو برے کو
چھیل ڈالے۔

السَّحُوجُ وَ الْمَسْحَاجُ۔ بہت قسمیں
کھانے والی عورت۔ قسم کھانے کی
عادی عورت۔

الْمَسْحُوجُ وَ الْمَسْحَاجُ۔ مِثْلُ الدَّوَابِّ تَزِرُ
چلنے والا جانور۔ بہت کھٹکھٹا جانور
الْمَسْحَاجُ۔ لکڑی کا ٹنڈے کا اور زلہ۔

سَحَرَ (دفع) سَحَرًا۔ دھوکا دینا۔ جادو
کرنا۔ فریفتہ کرنا۔ جادو سے دل
بُھانا۔ هُ عَنِ كَذَا۔ بھسنا۔

دور کرنا۔ سَحَرَ عَيْنَ الْأَمْرِ۔ کسی
معاملہ سے دور رہنا۔ وَ سَحَرَ
الْفِضَّةَ۔ چاندی پر سونے کا گلٹ
کرنا۔

سَحَرَهُ (دفع) سَحَرًا۔ پھیسپڑے پر مارنا۔
صفت مفعول (مَسْحُورٌ وَ سَحِيحٌ)
الْمَطَرُ الطَّيِّبُ۔ بارش کا مٹی کو
خراب کرنا۔

سَحَرَسَ (دفع) سَحَرًا۔ صبح سویرے آنا۔
ڈول وغیرہ کے کھینچنے سے پھیسپڑے کا
کٹ جانا۔ صفت (سَحَرٌ وَ سَحِيحٌ)
سَحَرَهُ۔ جادو کرنا۔ سحری دینا یا کھلانا۔
غذا دینا۔ مشغول کرنا۔


أَسَحَرَ۔ صبح جانا۔ یا صبح ہونا۔
تَسَحَّرَ۔ سحری کھانا۔
لِلسَّحَرِ۔ صبح ہونا یا صبح کو روانہ ہونا۔

۔ الرِّيكُ۔ مرغ کا بوقت صبح
بانگ دینا۔

السَّحَرُ۔ مص۔ وہ چیز جس کا ماخذ لطیف
و باریک ہو۔ جھوٹ کو سوچ بنا کر دکھانا
حیلہ بازی۔ فساد۔ بروہ چیز جس کے
حصول میں شیطانی تقریب سے مدد
لی جائے۔ ج۔ أَسْحَارٌ وَ سُحُورٌ۔
السَّحَرُ الْكَلَامِيُّ۔ کلام کی رنگین بیانی
جو دلوں پر گہرا اثر ڈال کر خیالات میں
انقلاب پیدا کر دے۔ اور جادو کا سا
رنگ دکھائے۔

السَّحَرُ۔ صبح سے کچھ پہلے۔ السَّحَرُ
الْأَعْلَى۔ صبح کا ذوق۔ السَّحَرُ
الْأَخِرُ۔ صبح صادق۔ ہر چیز کا کنارہ
ج۔ أَسْحَارٌ۔

السَّحَرُ وَالسَّحَرُ وَالسُّحُورُ۔ پھیسپڑا۔
ج۔ سُحُورٌ وَ سُحُورٌ وَ أَسْحَارٌ۔
"الْقَطْعُ مِنْهُ سَحَرِي" اس سے
میری امید ٹوٹ چکی۔ وَ انْتَفَخَ



سَحْرَةٌ - وہ بزدل و ڈرپوک ہو گیا۔
 "وَمَاتَ فَلَانٌ بَيْنَ سَحْرَىٰ وَ
 نَحْوَىٰ" وہ میرے سینہ سے ٹیک
 لگائے ہوئے فوت ہو گیا۔

السَّحْرَىٰ وَالسَّحْرِيَّةُ - صبح سے کچھ پہلے
 السَّحْرَةُ - صبح کا ذب۔

السَّحَارَةُ - پھیپھڑا - مِنَ الشَّامَةِ -

کبریٰ کے پھیپھڑے اور زرخروں کا حصہ
 جس کو قصائی جدا کر لیتا ہے۔ عوام
 اس کو "المعلق والقصبعة"

بولتے ہیں۔

السَّحُورُ - سحری کا کھانا وغیرہ۔

السَّجِيرُ - پیٹ کی بیماری والا - مِنَ

الْخَيْلِ - بڑے پیٹ والا گھوڑا۔

السَّحَارُ - جادوگر۔

السَّاحِرُ - فا - عالم - جہ - سَحَرَةٌ و

سَحَارٌ و سَحَارٌ و سَاحِرُونَ - مَوْنٌ

السَّاحِرَةُ - جہ - سَاحِرَاتٌ و سَاحِرٌ -

السَّوْحَرُ - بید کا درخت۔

السَّحَارُ وَالسَّحَارُ وَالسَّحَارَةُ - ایک

سبزی ہے جو مویشی کو موٹا کرتی ہے۔

المَسْحَرُ - وہ شخص جس کا پھیپھڑا دور

کر دیا گیا ہو۔ خوف زدہ - جادو

کیا ہوا۔

المَسْحُورُ - مفع - خراب شدہ کھانا -

بارش کی زیادتی یا کسی اور سبب سے

ناکارہ و خراب جگہ - عَنَزَةٌ

مَسْحُورَةٌ - کم دودھ والی بھیڑ۔

أَرْضٌ مَسْحُورَةٌ - بنجر زمین۔

تَسْحَسُهُ - الماء - پانی کا اوپر سے

بتنا۔

السَّحْسَحُ وَالسَّحْسَحَةُ - گھر کا صحن۔

السَّحْسَحُ وَالسَّحْسَحُ - مِنَ الْمَطَرِ -

شدید بارش جو سطح زمین کو پھین ڈالے۔

سَحَطَةٌ (ف) سَحَطٌ و مَسْحَطٌ - جلدی

ذبح کرنا - هُ الطَّعَامُ - کھانے سے
 پھندا لگنا - سَحَطَ الشَّكَابَ پانی
 ملانا - السَّخْلُ - بکری کے بچہ کو
 اس کی ماں کے ساتھ چھوڑنا۔

السَّحَطُ - مِنْ يَدٍ - ہاتھ سے پھیل

کر کرنا - عَنِ النَّخْلَةِ وَ نَحْوَهَا -

لنگنا اور بغیر ہاتھ کے کپڑے ہونے

اترنا۔

المَسْحَطُ - حلق - نَشَاةٌ و سَيِّطٌ و

سَحُوطَةٌ - ذبح کی ہوئی بکری۔

سَحَفَ (ف) سَحَفًا - الشَّعْرَ عَنِ

الْجِلْدِ - بال کو کھال سے چھیلنا۔

الرَّاسِ - سر موڑنا - (وَأَسْحَفَتِ)

الرَّيْحُ السَّحَابَ - ہوا کا بادل کو

اڑالے جانا - وَاسْحَفَتِ السَّحَابَةُ

پیٹھ کی چربی کو فروخت کرنا۔

السَّحَفَةُ - پیٹھ کی چربی - جہ - سَحَافٌ -

السَّحَافُ - سِل کی بیماری۔

السَّحِيفُ - پسینے وقت جلی کی آواز۔

دودھ دوہنے کی آواز۔

السَّيْفَةُ - ہر چیز کو ہالے جانے والی

سخت بارش - چھیل ہوئی چربی - جہ -

السَّكُوفُ - ہر چیز کو ہالے جانے والی

سخت بارش - نَاقَةُ سَكُوفٍ -

لاغر بے چربی والی اونٹنی جس کے تھن

لبے ہوں - اور تھنوں کے سوراخ تنگ

جَمَلٌ و نَاقَةٌ سَكُوفٌ - بہت

چربی دار فربہ اونٹ یا اونٹنی۔

مَسْحَفُ الْحَيْثَةِ - زمین پر سانپ ریگنے

کے نشانات۔

المَسْحَفَةُ - گوشت اور چمڑا چھیننے کے

اوزار - رَجُلٌ مَسْحُوفٌ سِل

کی بیماری والا - اَرْضٌ مَسْحَفَةٌ

باریک گھاس والی زمین۔

سَحَقَهُ (ف) سَحَقًا - خوب کوٹنا۔ باریک

کرنا۔ ہلک کرنا۔ الرِّيحُ الْأَرْضُ -
 ہوا کا تندی کی وجہ سے زمین کو پھیل
 ڈالنا۔ الرِّاسُ - سر موڑنا۔ الشَّيْءُ
 الشَّدِيدُ - سخت چیز کو نرم کرنا۔

الْقُمَّلَةُ - ہوں کو مار ڈالنا۔ الثَّوْبُ -

کپڑے کو دھونا۔ الْعَيْنُ دَمْعَهَا -

آنکھ کا آنسو بہانا۔ کہتے ہیں سَحَقَهُ

اللَّهُ - یعنی اللہ اسے ہلک کرے۔

سَحَقَ (ر) و سَحَقَ (ر) سَحَقًا -

دور ہونا۔

سَحَقَ (ر) سَحَقَةً - الثَّوْبُ - کپڑے

کا پرانا ہونا۔ بوسیدہ ہونا - النَّخْلَةُ

درخت خرما کا لمبا ہونا۔ مَفَت (سَحُوقُ)

جہ - سَحَقٌ -

سَحَقٌ - سَحَقٌ کا مبالغہ۔

السَّحَقَةُ - دور کرنا۔ ہلک کرنا۔ الثَّوْبُ

کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ نئے ہونے پر بھی

رواں چھڑ جانا - خَفَّتِ الْبَعِيرُ -

اونٹ کی ٹاپ کا گھس جانا۔ الضَّرْعُ

تھن کا دودھ سے خالی ہو کر اور سکڑ کر

پیٹ سے لگ جانا۔

السَّحَقُ - باریک ہونا - الْقَلْبُ

دل کا شکستہ و ذلیل ہونا۔ الشَّيْءُ

وسیع ہونا۔ فَرَّخَ ہونا۔ دور ہونا۔

الثَّوْبُ - نئے ہونے پر بھی کپڑے کا

رواں چھڑ جانا۔

السَّحَقُ - مَص - بوسیدہ کپڑا - سَحَقٌ

وَرْدُهُم - کھوٹا درہم۔

السَّحَقُ وَالسَّحَقُ - دوری - کہتے ہیں

"سَحَقًا لَهُ" یعنی اللہ اس کو اپنی

رحمت سے دور کرے۔

السَّحَقُ - دور - مِنْكَ سَحَقٌ -

باریک پس ہوئی مُشْكٌ -

أَسْوَحَقُ - دراز یا دراز قامت آدمی۔

السَّحَاقَةُ - بہت پسینے والا۔

السَّحَابَةُ مُنْثٌ سَحَابٌ - ہر چیز کو بہا لے جانے والی سخت بارش - جہ سَحَابٌ - دَمْعٌ مُسْحَقٌ - پتے ہوئے آنسو - جہ مَسَاجِيقُ - الِاسْحَاقُ - دور - الِاسْحَاقُ - جس چیز سے پیسا جائے۔

سَحَلٌ (دَف) سَحْلًا - الشَّيْءُ - چھیلنا۔ پینا۔ کوٹنا۔ الرَّجُلُ کسی کو گالی دینا۔ ملامت کرنا۔ الْعَرِيضَةُ مَائِدَةٌ - رہنے پر - قرض خواہ کو تنور پر پے نقد ادا کرنا۔ هُ مَائِدَةٌ سَوُوطٌ - تنو کوڑے مارنا۔ الثَّوْبُ کپڑے کو کچے دھاگے سے بننا۔ الْحَبْلُ - ایک لڑی کی رسی بٹنا۔ (سَحَلْتُ سَحْلًا وَتَحْوَلًا) الْعَيْنُ - رونا۔ سَحَلْتُ (دَف) تَحْيِلًا وَتَحَالًا - الْبَعْلُ - خچر کا ہنہانا۔ سَاحِلَةٌ - ایک دوسرے کو گالی دینا۔ ملامت کرنا۔ سَاحِلُ الْقَوْمِ يَأْوِلُهُمْ اَوْلَادُ كُوَسَاحِلٍ پُرلانا۔

اَسَحَلَهُ - گالی خوردہ پانا۔ اَسَحَلُ - چھیلنا۔ پینا۔ باریک ہونا۔ يَالْكَلْبِ - بات چیت جاری ہونا۔ اَسَحَلْتُ الدَّارَ اِهْمٌ - چکدار ہونا۔ السَّجَلُ - معرِ السَّجَلُ (جہ) اَسَحَالٌ وَتَحْوَلٌ وَتَحَالٌ وَرَ اَسَحِيلٌ کچے سوت سے بنا ہوا کپڑا۔ ایک لڑی سے بٹی ہوئی رسی۔

السَّاحِلُ - فا۔ سمندر کا کنارہ۔ جہ۔ سَوَاحِلُ - السَّحَالُ - لگام۔ السَّحْلَةُ - اپنی ماں سے جدا ہونے والا چھوٹا بچہ۔

السَّحَالَةُ - سونے چاندی کا برادہ گیہوں اور جوئی بھوسی۔ رڈی لوگ۔

الِاسْحَالُ - وہ درخت جس سے مسواکیں بنائی جاتی ہیں۔

الِاسْحَالُ - پانی بننے کی جگہیں۔

الِاسْحَالُ - سنگتراشی کا اوزار۔ ریتی

زبان۔ لگام، غصہ، مقرر بہادر چیت

ساقی، جلا۔ حدود کو قائم کرنے والا۔

پنچہ ارادہ۔ ایک لڑی کی بٹی ہوئی رسی۔

گمراہی خسیس آدمی شیطان، داڑھی

کا کنارہ۔ تو شدہ دان کا منہ۔ چھیلنا۔

بہت پانی والا پرنا۔ بہت بارش

سخت، فیاض۔ جہ۔ مَسَاحِلُ -

ثَابِتٌ (مُسْحَلَانٌ وَمُسْحَلَانِيٌّ) -

مُونٹ (مُسْحَلَانَةٌ وَمُسْحَلَانِيَّةٌ) -

الْمُسْحُولُ - مفع۔ چھوٹا۔ حقیر۔ ہموار

کشادہ جگہ۔

سَيَحَدُّ (رَسٌ وَتَحَدُّدٌ) سَحْمًا -

کالا ہونا۔ صفت رَاسُحْمٌ مُونٹ

تَحْمًا - جہ۔ سَحْمٌ -

تَحْمٌ - وَجْهَةٌ - چہرہ کا کالا کرنا۔

اَسَحَمْتُ - السَّمَاءُ - آسمان کا برسنا۔

السَّحَامُ وَالسَّحَامُ - وَالسَّحْمَةُ -

سیاہی۔

الْاَسْحَمُ - سینگ، بادل، سرپستان،

شراب کی مشک۔ وہ خون جس میں

قسم کھانے والے ہاتھ ڈبوئے ہیں۔

السَّحْمُ - لَوَا - (وَالسَّحِيمُ وَالْاَسْحَمَانُ) -

ایک درخت ہے۔

السَّحْمَةُ - لَوَا - لَوَا - لَوَا - لَوَا -

السَّحْمُ - لَوَا - لَوَا - لَوَا - لَوَا -

سَحْنٌ (دَف) سَحْنًا - الْحَجَرُ - پتھر توڑنا

- الْحَشْبَةُ - لکڑی کو رگڑ کر نرم و

ملاہم کرنا۔ الشَّيْءُ - باریک پینا۔

سَاحِنَةٌ - ملاقات کرنا۔ نیک سلوکی

سے پیش آنا۔ سَاحِنَةٌ الشَّيْءُ -

کسی چیز میں شرکت کرنا۔ (وَتَسْحِنَةٌ) -

کسی کے رنگ روپ اور چہرہ مہرہ کو دیکھنا۔

السَّحْنَةُ وَالْمَسْحَنَةُ وَالسَّحْنَاءُ -

السَّحْنَاءُ - رنگ روپ۔ کھال کی

نرمی اور آب و تاب۔

الْمُسْحَنَةُ - پتھر توڑنے کا اوزار۔

سَحَاةٌ يَسْحَاةٌ وَيَسْحَوَةٌ وَيَسْحِيَةٌ -

سَحْيًا - چھیلنا۔ السَّحْيُ - کھرچنا

صفت (سَاحِرٌ) - جہ۔ سَحَاةٌ و

سَاحُونٌ - مُونٹ۔ سَاحِيَةٌ -

الشَّعْرُ - بال مونڈنا۔ وَاَسْحَى

اَسْحَاةٌ وَتَسْحِيَةٌ (الْكِتَابُ

کتاب کی باریک چمڑے سے جلد باندھنا۔

اَسْحَى اَسْحَاءً - الشَّيْءُ - چھیلنا۔

الشَّعْرُ - بال مونڈنا۔ اَسْحَى وَتَسْحَى

شرم و حیا کرنا۔

السَّحَاءُ - مِنَ الْكِتَابِ - کتاب کی جلد

کے لیے باریک چمڑہ۔ جہ۔ اَسْحِيَةٌ -

واحد (سَاحَاةٌ) - السَّحَاءُ دماغ

کی جھلی۔ جہ۔ سَحَايَا -

السَّحَاةُ - جانب۔ ایک خاردار گھاس

جہ۔ سَحَى -

السَّحَايَةُ - بادل کا ٹکڑا۔ دماغ کی جھلی۔

ہر شے کا برادہ۔ چھیلنا۔ بیلچہ بنانے

کا پیشہ۔

السَّاحِيَةُ - سیلاب اور سخت بارش جو

زمین کو چھیل ڈالے۔

السَّحَاءُ - بیلچہ بنانے والا۔

الْاَسْحَوَانُ - بہت کھانے والا۔ خوبصورت

لے بہ قد والا۔

الْمَسْحَاةُ - بیلچہ، کدال۔ جہ۔ مَسَاحِرٌ -

سَحَّتْ (دَف) سَحًّا - الْجَرَادَةُ - مٹی کا

زمین میں دم چھبونا۔ فِی السَّيْرِ

أَوِ الْحَضَرِ - دور تک چلنا یا کھودنا

السَّخَاخُ - نرم عود زمین۔

س

السَّخَبُ - شور
 السَّخَابُ - لوگوں کا بار کتے ہیں وَجَدْتُكَ
 رَارِثًا السَّخَابُ میں نے تم کو بچہ
 کی طرح نا سمجھ پایا۔ ج۔ سَخِبَ -
 السَّخَاتُ - السَّخِيَّتَانِ - الجَرَمُ - زخم کا
 ورم ہلکا ہونا۔ السَّخْتُ - السَّخِيْتُ
 سخت۔
 السَّخْتُ - گوبر۔ السَّخُوْتُ - چکنا چکیلا۔
 السَّخْتِيَانِ - السَّخْتِيَانِ - بکری کی
 رنگی ہوئی کھال۔
 سَخَرَهُ (ف) سَخَرًا و سَخَرِيًّا - و
 سَخَرَهُ و سَخَرَهُ و سَخَرَهُ -
 کسی سے بیگار لینا۔ سَخَرَهُ و سَخَرَهُ -
 مغلوب کرنا۔ ذلیل کرنا۔
 سَخَرْتُ (ف) سَخَرًا - السَّفِينَةُ - کشتی
 کا عمدہ رفتار سے چلنا۔ صفت۔
 (سَاخَرَهُ) ج۔ سَاخَرَهُ -
 سَخَرَسَ (ر) سَخَرًا و سَخَرًا و سَخَرًا و
 مَسَخَرًا و سَخَرًا و سَخَرًا -
 یہ و مِنْهُ - مٹھا کرنا۔ اَنَا
 اَقُولُ هَذَا وَلَا اَسَخَرُهُ میں یہ
 ہنسی سے نہیں کہتا بلکہ سنجیدگی سے
 کہتا ہوں اور سچ بات کہتا ہوں۔
 السُّخْرَةُ - جس سے مٹھا کیا جائے۔
 بیگاری یا بیگار۔
 الْمُسَخَّرَةُ - وہ جس سے مٹھا کیا جائے
 السُّخْرَةُ - مذاق۔ السُّخْرِيُّ
 بیگار۔ (و) السُّخْرِيَّةُ - محمول
 مٹھا (سَخَسَهُ) السَّخَا سِيخُهُ
 عمدہ نرم زمین۔
 سَخَطَ (ر) سَخَطًا - الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ -
 کسی پر غضب ناک ہونا۔ الشَّيْءُ
 ناپسند کرنا۔
 اسَّخَطَهُ کسی پر غضب ناک کرنا۔
 كَسَخَطَهُ - ناراض ہو کر غیظ و

غضب میں آنا اور ناپسند کرنا۔
 الْعَطَاءُ - بخشش کو کم سمجھنا۔
 السُّخْطُ وَالسُّخْطُ وَالسُّخْطُ - ناراضگی
 غصہ۔
 الْمُسَخُّوطُ - مفع۔ کڑوہ۔
 الْمُسَخُّطُ وَالْمُسَخَّطَةُ - غصہ میں لانے
 والی چیز۔ سبب غضب ج۔ مَسَاخِطُ
 سَخُفَ (ر) سَخْفًا و سَخَافَةً - کمزور
 عقل والا ہونا۔ سَخُفَ الْعَزْلُ -
 باریک ہونا۔ السَّيَاقُ - مشک کا
 کمزور ہونا۔ پھٹنا۔
 سَخَفَهُ - کم عقل ٹھہرانا۔ سَاخَفَهُ -
 بیوقوفی کا برتاؤ کرنا۔
 السُّخْفَةُ وَالسُّخْفَةُ - لاغری کمزوری
 کم عقلی۔
 السُّخْفُ - تنگ گذارہ کی زندگی۔
 وَالسُّخْفُ - کم عقلی۔
 السَّيْفُ - کم عقل۔ ثَوْبٌ سَيِّفٌ -
 پتلا جھمبھرا کپڑا۔ سَيِّفُ الْعَقْلِ -
 ناقص العقل۔ رَأْيٌ سَيِّفٌ -
 کمزور رائے۔ سَبَابٌ سَيِّفٌ
 پتلا پتلا بادل۔
 السَّخَافَةُ - مص ہر چیز کی کمزوری۔
 اَرْضٌ مُسَخَّفَةٌ - کم گھاس والی
 زمین۔
 سَخَلَهُ (ف) سَخَلًا - صاف کرنا۔ سَخَلَ
 الشَّيْءُ - چیز کو دھوکے سے لینا۔
 سَخَلَهُ - عیب لگانا۔ کمزور کرنا۔
 اسَّخَلَ - الأمر - پیچھے کرنا۔ کام کو
 پیچھے ڈالنا۔
 السَّخْلُ - کمزور۔ مِنَ الْقَوْمِ - ذلیل
 ج۔ سَخْلٌ و سَخَالٌ - السَّخْلَةُ
 بکری کا بچہ۔ ج۔ سَخْلٌ و سَخَالٌ
 و سَخْلَانٌ و سَخَلَةٌ -
 السَّخَالَةُ - بچھوڑن۔ بھٹکن۔

الْمُسَخُّولُ - فرومایہ۔ گندام۔
 سَخِمَ - اللِّحْمُ - گوشت کا بدبودار ہونا
 - الماءُ پانی گرم کرنا۔ اللہ
 وَجْهَهُ - سیاہ رو کرنا۔ هُ
 يَصْدُرُ - کسی کو غضب ناک کرنا۔
 تَسَخَّمَ - عَلَيْهِ - کینہ رکھنا۔ غضبناک
 ہونا۔
 السَّخْمُ - سیاہی۔ السُّخْمَةُ - سیاہی
 کینہ۔ غصہ۔
 السُّخَامُ - کوئلہ، ہانڈی کی سیاہی۔
 پرندہ کے بازوؤں کے نیچے کے نرم و
 ملائم پر۔ کِلْبٌ سَخَامٌ - تاریک رات
 (و) السُّخَامِيُّ وَالسُّخَامِيَّةُ
 خوشگوار شراب،
 الِاسْخَمُ - سیاہ۔ مَوْنٌ سَخْمَاءُ
 ج۔ سَخْمٌ -
 السُّخَامِيُّ - سیاہ۔ السَّيِّئَةُ - کینہ۔
 کہتے ہیں: "سَلَّتْ سَيِّئَتُهُ بِاللَّطِيفِ"
 یعنی میں نے لطیف طریقہ سے اس کا
 کینہ ختم کر دیا۔ ج۔ سَخَامٌ
 الْمُسَخَّمُ - مفع۔ کینہ ور۔
 سَخَنَ (ر) و سَخِنَ (ر) و سَخِنَ
 (ر) سَخُونَةً و سَخَانَةً و سَخَا
 و سَخَا و سَخَنَةً - گرم ہونا۔
 سَخَنَهُ (ر) سَخَاً - بِالضَّرْبِ - تکلیف دہ
 مار مارنا۔ "مَا اسَّخَنَ صَرِيحُهُ"
 اس کی مار کس قدر المناک ہے۔
 سَخَنَتْ (ر) سَخَنًا و سَخُونًا و
 سَخَنَةً - عَيْنُهُ - آنکھ کا تکلیف
 سے جلنا۔
 اسَّخَنَ و سَخَنَ - الشَّيْءُ - گرم کرنا۔
 کہتے ہیں: "اسَّخَنَ عَيْنُهُ وَيَعِينُهُ"
 اس نے اس پر مصیبت ڈال کر لادیا
 السَّخْنُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ و
 السَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخُونَةُ -

گرمی، بھار۔ عَلَیْكَ بِالْأَمْرِ عِنْدَ
سُخْنَتِهِ۔ معاملہ کو شروع ہی میں قابو
میں کرلو۔
السُّخْنُ وَالسُّخْنَانُ وَالسُّخْنَانُ۔ گرم۔
مَاءٌ سَخِينٌ۔ گرم پانی۔ ضَرْبُ
سَخِينٍ۔ المناک مار۔ السَّخِينُ
کدال۔ بیلچہ، بھاؤڑا۔ قھائی کی چھری
بل کا دستہ۔ جہ۔ سَخَاخِينُ۔
السَّاخِنُ۔ خا۔ گرم۔ جہ۔ سَخْحَانُ۔
مُونٹ ساخِنَةُ۔ کِلَیۃ سَاخِنَةُ
گرم رات۔
السَّخَاخِينُ۔ گرم۔ مَاءٌ سَخَاخِينُ
گرم پانی۔ کلام عرب میں اس لفظ کے
علاوہ مَقَاعِیْنِ کا وزن کہیں نہیں
آیا۔
السَّخِينُ۔ ہر وہ چیز جو نہ گرم ہو نہ ٹھنڈی۔
السَّخِنَةُ۔ آٹے سے تیار کیا ہوا کھانا۔
گرم کھانا۔
السَّاخِنُ۔ بانڈیاں۔ موزے، علماء کا
سر پر ڈالنے کا کپڑا (اس کا واحد نہیں)
بعض کے نزدیک تَسْحَنُ یَا تَسْحَانُ
اس کا واحد ہے۔
السَّخْنَةُ۔ دیگی، ہانڈی۔
سَخَا یَسْخُو وَ سَخِی یَسْخُو وَ سَخُو۔
یَسْخُو سَخَا وَ سَخَا وَ سَخَاوَةً وَ
سُخُوًا وَ سُخُوَةً۔ فیاض ہونا۔
سخی ہونا۔
سَخَا النَّارُ یَسْخُوہَا۔ سَخُوًا۔ وَ
یَسْخَاہَا سَخُوًا وَ سَخِیًا۔ راکھ نکال کر
آگ جلانا۔ الْقِدْرُ۔ ہانڈی کے
نیچے آگ جلانا۔ الرَّجُلُ۔ سکون
اختیار کرنا۔
تَسَاخَى وَ تَسَخَى۔ بناوٹی سخی بننا۔
السَّخَاوَةُ۔ فیاضی، سخاوت، بخشش۔
السَّخَاوَةُ۔ ایک قسم کی سبزی۔

السَّخِیُّ۔ بخشش کرنے والا۔ فیاض۔ جہ۔
السَّخِیُّ وَ السُّخُوَاءُ۔ مُونٹ تَسْخِیۃ
جہ۔ سَخَا یَا وَ سَخِیَاتُ۔ الارضُ
السُّخُوَاءُ۔ کُشَادہ نرم زمین۔ جہ
تَسَخَاوِی وَ تَسَخَاوِ۔
مَسْخِی النَّاسِ۔ ہانڈی کے نیچے کُشَادہ کی
ہوئی جگہ تاکہ آگ بسہولت جل سکے۔
سَدَّ (سَدًّا)۔ الْإِنَاءُ۔ برتن بند
کرنا۔ الثَّمَلَةُ۔ سوراخ یا رخنہ
دور کرنا۔ درست کرنا۔ الْبَابُ۔
دروازہ بند کرنا۔
سَدَّ (سَضَض) سَدَّدَ وَ سَدَّدَا۔
درست ہونا۔ هُوَ یَسَدُّ فِی قَوْلِهِ
وہ ٹھکانہ کی بات کہتا ہے۔ وَقُلْتُ لَهُ
سَدَّ اَدَا مِنْ الْقَوْلِ وَ سَدَّدَا۔
میں نے اس سے ٹھیک اور سیدھی
بات کہی۔ الشَّیْءُ۔ چیز کا سیدھا ہونا۔
سَدَّدَ۔ الرَّوْحُ۔ نیزہ کو سیدھا کرنا۔
ہ۔ راہ راست کی طرف ہدایت کرنا۔
راہ راست دکھانا۔
أَسَدَّ۔ الشَّیْءُ۔ سیدھا ہونا۔ الرَّجُلُ
صواب تک پہنچنا یا صواب و درستی
پا ہونا۔
تَسَدَّدَ۔ سیدھا ہونا۔ الشَّیْءُ۔ درست
ہونا۔
لَسَدَّ وَ لَسَدَّ اِنْسِدَادًا وَ اِسْتَدَّ اَدَا۔
بند ہونا۔
اِسْتَدَّ۔ الشَّیْءُ۔ سیدھا ہونا۔ درست ہونا
السَّدُّ وَ السُّدُّ۔ جہ۔ اَسَدَّ اَدَّ۔ دو چیزوں
کے درمیان روک یا آڑ پہاڑ۔ وَ
السَّدُّ۔ جہ۔ اَسَدَّةٌ۔ عیب مثلاً
انڈھاپن۔ وَالسُّدُّ۔ جہ۔ سُدَّدُ۔
افق پر چھا جانے والا سیاہ بادل۔
جَوَادُ سُدَّ۔ افق کو ڈھک لینے
والا ہانڈی کا دل۔ وَالسُّدُّ۔ جہ۔

یَسَدَّدَا۔ پتھروں اور چٹانوں والی
وادی جس میں پانی بہت ٹھہرے۔ وادی
سایہ۔ کلام۔ یَسَدُّ۔ درست کلام۔
السَّدُّ۔ مہ۔ درست۔ راست۔ دوستی۔
السَّدَّ اَدَّ۔ ہدایت، درستی، راستی۔
السَّدَّ اَدَّ۔ السِّدَادُ۔ تھن میں چھا ہوا
دودھ جو دودھ کی نالی کو بند کر دیتا ہے
السِّدَّ اَدَّةٌ۔ دُھلکا السِّدَّ اَدَّ ناک کی
بیماری جس سے ہوا یعنی دشوار ہو۔
رَجُلٌ سَدَّ اَدَّ۔ سیدھا آدمی۔
السَّدَّةُ۔ گھر کا دروازہ۔ برآمدہ، بیٹھنے
کی جگہ جیسے منبر۔ جہ۔ سَدَّدُ۔
عَيْنٌ سَادَّةٌ۔ کمزور نظر کی آنکھ۔ جہ
سَدَّدُ۔
الْاَسَدُّ۔ جہ۔ سُدَّ وَ (السِّدِّیْدُ) ٹھیک
درست۔ حق کا طالب۔
الْمَسَدُّ۔ بند کرنے کی جگہ۔ سَدَّ
مَسَدَّةٌ۔ قائم مقام ہونا۔
سَدَّ (سَدَّ)۔ سَدَّ جَا۔ یا الشَّیْءُ لَمَان
کرنا۔ (وَسَدَّ)۔ جھوٹ بولنا۔
جھوٹی باتیں بنانا۔ صفت (سَدَّ) اجہ
اِسَدَّ جہ۔ منہ کے بل کرنا۔ اوندھا کرنا۔
سَدَّ حَذَفَ۔ سَدَّ حَا۔ ذبح کر کے زمین پر
لٹانا۔ بچھا لٹانا۔ النَّاقَةُ۔ اونٹنی کو
بٹھانا۔ الْفِرْقَةُ۔ مشک بھڑنا۔
سَدَّ ح۔ بِالْمَكَانِ۔ اقامت کرنا۔
سَدَّ حَذَفَ وَ سَدَّ حَذَفَ قُلَّ کرنا
اِسَدَّ ح۔ ٹانگیں کُشَادہ کر کے چت لیٹنا۔
السَّادِحُ۔ خا۔ آسودہ مال۔ مال دار۔
مُونٹ۔ سَادِحَةٌ۔ السَّادِحَةُ
گھٹا ٹوپ بادل۔
السِّدِّیۃُ۔ مَسَدُّ وَ مَسَدُّ۔ چت لیٹا ہوا۔
اِسَدَّ ح۔ پھیلنا۔
سَدَّ (سَضَض) سَدَّدَا وَ سَدَّدَا۔
الشَّعْرُ۔ بالوں کا لٹکانا۔ الثَّوْبُ



کپڑا بھاڑنا۔ لمبائی میں لٹکانا۔ الرجل
فی البلاد۔ ملک میں ایسا جانا کہ
پھرنے لوثنا۔

سید رس (سید رس) سدا رس (سدا رس) سدا رس
ہونا۔ لاپرواہ ہونا۔ البعیس۔
اونٹ کا گرمی کی تیزی سے چندھیا جانا
صفت (سدا رس)

انسدر۔ الشعور۔ بال لٹکانا۔ انسدر
یرکض۔ وہ آہستہ دوڑا۔ ڈھلوان
سے نیچے اترنا۔

تسدر۔ بشوہ۔ کپڑا اوڑھ لینا۔
السدر۔ بیری کا درخت۔ سدر۔
السدر۔ بیری کا درخت۔ سدر۔
سدر۔ بیری کا درخت۔ سدر۔
سدر۔ بیری کا درخت۔ سدر۔
سدر۔ بیری کا درخت۔ سدر۔
سدر۔ بیری کا درخت۔ سدر۔
سدر۔ بیری کا درخت۔ سدر۔
سدر۔ بیری کا درخت۔ سدر۔

السدر۔ حیران۔ سمندر۔ ناقہ
سدر۔ بوڑھی اونٹنی۔
السدر۔ بیری کے پتے بیچنے والا۔
السدر۔ گھاس۔ حیرہ کے اطراف میں
ایک دریا کا نام۔ شاہ نعمان کا محل۔
بین میں ایک جگہ کا نام۔ جہاں کی
چادریں مشہور ہیں۔

الاسدر۔ آنکھ کی دوڑگیں۔ دونوں
شانے۔ "جاء يضرب اسدریہ"
یعنی وہ بے نیل مرام خالی ہاتھ آیا۔
سدر۔ سدر۔ سدر۔ سدر۔
سدر۔ سدر۔ سدر۔ سدر۔
سدر۔ سدر۔ سدر۔ سدر۔
سدر۔ سدر۔ سدر۔ سدر۔
سدر۔ سدر۔ سدر۔ سدر۔

سدر۔ سدر۔ سدر۔ سدر۔
سدر۔ سدر۔ سدر۔ سدر۔
سدر۔ سدر۔ سدر۔ سدر۔
سدر۔ سدر۔ سدر۔ سدر۔
سدر۔ سدر۔ سدر۔ سدر۔
سدر۔ سدر۔ سدر۔ سدر۔
سدر۔ سدر۔ سدر۔ سدر۔
سدر۔ سدر۔ سدر۔ سدر۔

دانت گرانا۔
السدر۔ اونٹ کی چھٹے روز پانی پینے
کی باری۔

السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔

السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔

السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔

السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔

السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔

السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔

السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔

السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔

السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔

السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔

السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔

السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔
السدر۔ السدر۔ السدر۔

نے اپنی تاریکی کے پردے چھوڑ دیے۔
السَّدَلُ - میلان - جھکاؤ۔

السَّدِيلُ - پاکی وغیرہ کا پردہ - سج -
سُدْلٌ وَاسْدَالٌ وَسَدَائِلٌ
شَعْرٌ مُسْدَلٌ لمبے کثیر بال۔
سَدَمٌ رن، سَدَمًا - الباب۔
دروازہ بند کرنا۔

سَدِمٌ دس، سَدَمًا - ندامت کے
ساتھ تلکین ہونا - غم کے ساتھ شعلیں ہونا
- یا لشی - بہت چاہنا، چلین ہونا۔
- الماء - پانی کا بہت دنوں کا ہونے
کے سبب متغیر ہونا۔ اور کافی سے
ڈھک جانا۔

سَدَمٌ - الماء طویل عہد کا۔ درازی
مدت کا پانی کو متغیر کر دینا۔ مَاءٌ
سَدَمٌ وَسَدَمٌ وَسَدَمٌ
کاٹ سے ڈھکا ہوا پانی، بہت دنوں کا
ہونے کے سبب متغیر پانی۔ رَجُلٌ
سَدِمٌ - غضبناک آدمی۔

السَّدَمُ - ندامت کے ساتھ غم، غم کے
ساتھ غصہ۔

السَّدَمَانُ - پشیمان و غمناک۔
السَّدِيمُ - سج - سَدَامٌ بہت ذکر کرنے
والا۔ سج - سَدَمٌ - کھریا بلکا بلکا کھڑ
سَدَنٌ رن ض، سَدَنًا وَسَدَانَةٌ - کعبہ
شریف یا بُت خانہ کی خدمت کرنا۔
دربان ہونا۔ صفت رَسَادِنٌ، سج
سَدَنَةٌ - وِسَدَانٌ الیسٹر - پردہ
چھوڑنا۔

السَّدَنُ وَالسَّدَنُ - سج - اَسْدَانُ
السَّدَانُ - پردہ - سَدَانَةٌ
الکعبۃ - کعبہ شریف کی خدمت
السَّدِينُ - چربی - اون - پردہ۔
السَّدَانُ - آہرن - نہائی، اور صیغ لفظ
سَدَانٌ ہے۔

سَدَايَسْدٌ وَسَدَاوٌ - بیدار، نَحْوُ
الشیء - کسی چیز کی طرف ملاحظہ کرنا۔
- الصَّبِيُّ بِالْجَوْزِ - بچہ کا اخروٹ
سے کھینا۔ سَدَنٌ الناقۃ فی
المشی - اونٹنی کا چلنے میں کھلے کھلے
قدم رکھنا۔
اَسْدَى اَسْدَاءً - النخل - کھجور کا
نرم پڑنا۔

اَسْتَدَى اَسْتَدَاءً - بیدار - ملاحظہ کرنا
- الصَّبِيُّ بِالْجَوْزِ - بچہ کا اخروٹ
سے کھینا۔ الفرس - گھوڑے کا
پسینہ والا ہونا۔

السَّادِي - فا - چھٹا، مؤنث - سَادِيَةٌ
سج - سَوَادٌ - البوق السَّوَادِي - چلنے
میں کھلے کھلے قدم رکھنے والی اونٹنیاں۔
سَدَى لَسْدَى سِدَى - البُسْرُ -
کھجور کا نرم پڑنا۔ صفت (سَدِ)
الأرضُ زمین کا زیادہ نمناک ہونا۔
- اللَّيْلَةُ - بہت شبنم والی ہونا۔
صفت (سَدِيَّةٌ)

سَدَى لَسْدَى سَدِيًا - الثوب
کپڑے کا تانا تانا۔

سَدَى - الثوب (لَسْدِيَّةٌ) تانا تانا۔
- اَلْيَدِ - احسان کرنا۔ مَعْدُوًا -
بھلائی کرنا۔ الأرض - نمناک ہونا۔

اَسْدَى اَسْدَاءً - الثوب - کپڑے
کا تانا تانا۔ کہتے ہیں "الجمہ ما
اَسْدَيْتَ" جس احسان کی تم نے
ابتدا کی ہے اس کو پورا بھی کرو۔
اَلْيَدِ - احسان کرنا۔ الأرض
نمناک کرنا۔ بَيْنَهُمَا - اصلاح کرنا۔
- الأَمْرُ - کام کو مکمل چھوڑنا۔

لَسْدَى لَسْدِيًا - الشیء - سوار ہونا۔
چڑھنا، اوپر سے کپڑنا۔ الثوب -
کپڑے کا تانا تانا۔

السَّدَى - مَن الثوب - کپڑے کا تانا۔
سج - اَسْدِيَّةٌ - بمی - تری - شبنم - شد
بھلائی (و السَّدَار) - سبز کھجور۔
السَّدَاةُ - مَن الثوب - تانا۔ کہتے ہیں -
"مَا أَنْتَ بِالْحَمْدَةِ وَلَا سَدَاةٌ" -
یعنی تم خیر رسال ہو نہ نفع بخش "ذَهَبَ
كَلَامُهُ سَدَى" - یعنی اس کا کلام
بیکار گیا۔

الْاَسْدَى وَالْاَسْدَى - وہ کپڑا جس کا
تانا کیا گیا ہو۔

المَسْدَاةُ - تانا تاننے کا آلہ۔

السَّدَابُ - ایک بدبودار پودا۔

سَدَجٌ - سَدَجٌ - سَدَجٌ میں دیکھو۔

السَّدَقُ - اہل فارس کی مشہور رات جسے
لیلۃ الوفود کہتے ہیں۔

السَّوْدَقُ - دل بگن - بیڑی کی کڑی یا
حلقہ - شکر۔

السَّدَانِقُ وَالسَّوْدَانِقُ وَالسَّوْدَانِقُ
شکر۔

سَرَرٌ رن، سُرُورًا وَمَسَرَّةٌ وَسُرًا
سُورًا وَلَسَرَّةٌ - خوش کرنا۔

سَرَرٌ رن، سَرَرًا - ناف میں نیزہ مارنا۔

الصَّبِيُّ - بچہ کی نال کاٹنا۔ فَلَاؤًا
بھولوں کا گلدستہ پیش کر کے مبارکباد
دینا۔

سَرَرٌ رن، سَرَرًا - ناف میں درد ہونا۔

سَرَرٌ سَرُورًا - خوش ہونا - صفت
(مَسَرُورًا) - بچہ کی نال
کا کاٹنا جانا۔

اَسْرَرٌ اَسْرَارًا - خوش کرنا۔ اَسْرَرٌ
الیسٹر - بھید چھپانا۔ بھید ظاہر کرنا
(مَد) - اَلْيَدِ پکڑنا - کسی سے خفیہ
بات کرنا۔ کسی کو بھید بتانا۔ اَلْيَدِ
المودعة وبالمودعة - اپنی دوستی
کو پہنچانا۔

سَرَرٌ رن، سَرَرًا - ناف میں درد ہونا۔

سَرَرٌ سَرُورًا - خوش ہونا - صفت
(مَسَرُورًا) - بچہ کی نال
کا کاٹنا جانا۔

اَسْرَرٌ اَسْرَارًا - خوش کرنا۔ اَسْرَرٌ
الیسٹر - بھید چھپانا۔ بھید ظاہر کرنا
(مَد) - اَلْيَدِ پکڑنا - کسی سے خفیہ
بات کرنا۔ کسی کو بھید بتانا۔ اَلْيَدِ
المودعة وبالمودعة - اپنی دوستی
کو پہنچانا۔

اَسْرَرٌ اَسْرَارًا - خوش کرنا۔ اَسْرَرٌ
الیسٹر - بھید چھپانا۔ بھید ظاہر کرنا
(مَد) - اَلْيَدِ پکڑنا - کسی سے خفیہ
بات کرنا۔ کسی کو بھید بتانا۔ اَلْيَدِ
المودعة وبالمودعة - اپنی دوستی
کو پہنچانا۔

اَسْرَرٌ اَسْرَارًا - خوش کرنا۔ اَسْرَرٌ
الیسٹر - بھید چھپانا۔ بھید ظاہر کرنا
(مَد) - اَلْيَدِ پکڑنا - کسی سے خفیہ
بات کرنا۔ کسی کو بھید بتانا۔ اَلْيَدِ
المودعة وبالمودعة - اپنی دوستی
کو پہنچانا۔

اَسْرَرٌ اَسْرَارًا - خوش کرنا۔ اَسْرَرٌ
الیسٹر - بھید چھپانا۔ بھید ظاہر کرنا
(مَد) - اَلْيَدِ پکڑنا - کسی سے خفیہ
بات کرنا۔ کسی کو بھید بتانا۔ اَلْيَدِ
المودعة وبالمودعة - اپنی دوستی
کو پہنچانا۔

اَسْرَرٌ اَسْرَارًا - خوش کرنا۔ اَسْرَرٌ
الیسٹر - بھید چھپانا۔ بھید ظاہر کرنا
(مَد) - اَلْيَدِ پکڑنا - کسی سے خفیہ
بات کرنا۔ کسی کو بھید بتانا۔ اَلْيَدِ
المودعة وبالمودعة - اپنی دوستی
کو پہنچانا۔

اَسْرَرٌ اَسْرَارًا - خوش کرنا۔ اَسْرَرٌ
الیسٹر - بھید چھپانا۔ بھید ظاہر کرنا
(مَد) - اَلْيَدِ پکڑنا - کسی سے خفیہ
بات کرنا۔ کسی کو بھید بتانا۔ اَلْيَدِ
المودعة وبالمودعة - اپنی دوستی
کو پہنچانا۔



سَرَدَ - خوش کرنا۔ سَرَدَ سَرِيدَ
لوٹنے سے شادی کرنا۔

سَارَ - پوشیدہ بات کرنا۔ کان میں
بات کرنا۔ کاننا بھوسی کرنا۔

تَسَرَّسَ - لوٹنے بنانا۔ التَّوْبَ - پورا
پھٹنا۔

تَسَاتَّ - القوم - آپس میں سرگوشی
کرنا۔ کاننا بھوسی کرنا۔ ایک دوسرے
کو بھید بتانا۔

لَسْتَسِرَّ - لَسْتَسِرَّ - لوٹنے بنانا۔

عَنْدَ - چھپنا۔ الْقَمَرُ - چاند

کا ماہ کی آخری راتوں میں چھپنا۔

الشَّيْءُ - چھپانے میں مبالغہ کرنا۔

الرَّجُلُ - خوش ہونا۔ الرَّجُلُ -

اپنے بھید سے کسی کو واقف کرنا۔

السَّرُّ - مَم - رَجُلٌ بَرٌّ سَرٌّ - نیکی کر کے

خوش ہونے والا آدمی۔

اليسر - ج - اسرار - بھید۔ راز۔ کہتے

ہیں "صُدُورُ الْاَحْوَارِ قُبُورُ"

الاسرار - احرار کے سینے بھیدوں

کے لیے قبریں ہیں۔ رَجُلٌ سِرِّيٌّ

کاموں کو خفیہ طریقہ سے کرنے والا

آدمی۔ فَلَا تُكَلِّمَنَّ سِرَّ هَذَا الْاَمْرِ

فلاں اس معاملہ سے واقف ہے۔

عیسائیوں کے یہاں ایک محسوس

علامت و اشارہ ہے۔ جس کے متعلق

ان کا گمان یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ

نے تزکیہ نفوس کے لیے متعین فرمایا

تھا۔ السِّرُّ - طریقہ۔ نیچ۔ وادی

کا درمیان۔ خالص چیز۔ چیز کا پاکیزہ

ترین و بہترین حصہ۔ پاکیزہ عمدہ زمین

ماہ قمری کی پہلی رات یا آخری رات یا

وسط ماہ۔ اصل۔ ہر چیز کا جوف و

مغز۔ ج - اسرار - وجہ

الاسرار - ہاتھ یا ماتھے کے خطوط

الاسرار - چہرہ کی خوبیاں۔

السُّرُّ - بچہ کی نال۔ ج - اسرار -

اور سُرُّ - "سُرُوْر" کے معنی بھی

دیتا ہے۔

السُّرُّ و السُّرُّ - ہاتھ اور پیشانی

کے خطوط، بچہ کی نال۔ السُّرُّ -

ماہ قمری کی آخری رات۔ چیز کا کھوکھلا

ہونا۔

السَّرَّةُ - گلدستہ۔

السَّرَّةُ - نال ناف۔ ج - سَرَات و

سُرُّ - سُرَّةُ الْوَادِي - وادی کا

درمیان یا عمدہ حصہ۔ سُرَّةُ الْبَلَدِ -

وسط شہر۔ سُرَّةُ الْحَوْضِ حوض کا

پینڈا جہاں پانی ٹھہرتا ہے۔ سُرَّةُ

الْفَرَسِ - ایک ستارہ۔ امْرَأَةٌ

سُرَّةُ - لوگوں کو خوش کرنے والا

عورت۔

السُّرُوسُ - خوشی۔ السُّرُوسُ - خوشی

نازبو کی شاخیں۔

السَّرِيْرُ - ج - اسرار - تخت،

زیادہ تر استعمال تخت شاہی کے لیے

ہے۔ "زَالٌ عَنْ سَرِيْرِهِ" یعنی اس

کی عزت و نعمت جاتی رہی۔ خواجگاہ

گردن اور سرٹنے کی جگہ۔ نعمت۔

زندگی کی آسودگی۔ طیبہ پر کی ریت۔

السَّرِيْرَةُ - بھید۔ راز، خفیہ معاملہ۔ نیت

کہتے ہیں "هُوَ طَيِّبُ السَّرِيْرَةِ"

یعنی وہ پاک دل گھری نیت کا آدمی

ہے۔ ج - سَرَارُ

السَّرِيْرَةُ - گھر کی لوٹنے۔ ج - سَرَارِيْ

السَّرِيْرَةُ - بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک

سے پیش آنے والا۔ اور ماں کو خوش

رکھنے والا۔

السَّرَاْرُ - خوشی۔ خوشحالی۔ کہتے ہیں۔

"هُوَ صَدِيقٌ لَهُمْ فِي السَّرَاْرِ"

الْقَرَارُ - وہ فراخی و تنگ حالی میں

انکا دوست ہے۔

السَّرَارُ - ہاتھ و پیشانی کے خطوط۔ لکیریں۔

ج - اسرار -

السَّرَارُ - خالص النسب - "سَرَارُ"

الشَّهْرُ - ماہ کی آخری رات۔ سَرَارُ

الْوَادِي - وادی کا عمدہ حصہ۔

السَّرَارَةُ - خالص النسب - وادی کا

درمیان۔ وسرارة الشیء چیز کا

عمدہ خالص حصہ۔ ج - سَرَارُ -

"هُوَ فِي سَرَارَةٍ مِنْ كَمِيْثَةٍ"

وہ خوب فراخی و خوشحالی میں ہے۔

السَّرَاْرُ - خوشی و خوشحالی۔

الاسر - بیچ سے پولا چمٹاق۔ مِنْ

الرجال - اجنبی آدمی۔ بہت موٹا۔

السَّرِيْرُ - مسرت و خوشی۔ نازبو

کی شاخیں۔ ج - مَسَارُ - الْمَسَرَّةُ

مُجَوَّفٌ - نالی جس کے ذریعہ سے

پوشیدہ باتیں کرتے ہیں۔

السُّرُوسُ - مؤنث۔ مَسْرُورَةٌ -

سَرَاتُ رَفِ سَرَاءُ و سَرَاتُ

الْمَجْرَادَةِ أَوِ السَّمَكَةِ أَوِ الضَّبَّةِ -

ٹڈی یا مچھلی یا گدھے کا انڈے دینا۔

السَّرَاْرُ - عورت کا زیادہ نیچے دینا۔

السَّرَاتُ - السَّمَكَةُ - مچھلی کا انڈے دینے

کے وقت کو پہنچنا۔

السَّرُّ و السَّرُّ - ٹڈی، مچھلی، گدھے

وغیرہ کا انڈا۔

السَّرُّ و - مِنَ السَّمَكِ وَنَحْوِهَا - بہت

انڈے دینے والی مچھلی وغیرہ۔ ج -

سُرُوْرٌ - وَسُرَا - اَرْضُ

مَسْرُوعَةٌ - بہت ٹڈی والی زمین۔

سَرَبَ دَن سُرُوْبًا - الماء - پانی کا

جاری ہونا۔ ہننا۔ الرَّجُلُ - گھستے چلے



جانا۔ الایل۔ اونٹوں کا چرنے کے لیے جانا۔ (سربا) القربۃ۔ مشک سینا۔
 سرب دس۔ سربا۔ الائناء۔ برتن کا ٹپکنا۔ الماء من الائناء۔ پانی کا برتن سے بہہ جانا۔
 سرب۔ ناک میں چاندی کا دھواں داخل ہونے سے گھٹن محسوس کرنا۔ صفت (مسرب)
 سرب۔ الایل۔ اونٹوں کی ٹول ٹولی کر کے بھیجنا۔ اکی الاشیاء۔ اس نے مجھ کو چیزیں ایک ایک کر کے دیں۔ الحافزۃ زین کو دائیں بائیں سے کھڑا۔ القربۃ۔ مشک میں پانی ڈالنا۔ (سرب) الماء من الائناء۔ برتن سے پانی بہانا۔
 تسرب۔ من الماء۔ پانی سے بھر جانا۔ الوخش فی الحرجۃ۔ وحشی جانور کا اپنے سوراخ میں گھس جانا۔
 تسرب۔ سوراخ میں داخل ہونا۔ الماء من الائناء۔ پانی بہنا۔
 السرب۔ مم۔ مویشی۔ جانب۔ سینہ۔ راستہ۔ کہتے ہیں "فلان مخلق السرب" فلاں پر کوئی تنگی نہیں۔ "وخل لک سربۃ" اس کا راستہ چھوڑو۔
 السرب۔ ہرنوں کا ریوڑ یا پرندوں کا ٹولہ کھجور کے درختوں کا جھنڈ۔ راستہ۔ دل۔ "فلان واسع السرب" فلاں فراخ دل ہے۔ ج۔ اسراب۔
 السرب۔ وحشی جانور کا سوراخ یا بل۔ زمین کے اندر کا گڑھا۔ تہ خانہ۔ پانی کی نالی۔ مشک سے بننے والا پانی۔ کلین سرب۔ بہت چلتا ہوا راستہ۔ ج۔ اسراب۔

السرب۔ بننے والا پانی۔ موادۃ سربۃ۔ بننے والی مشک۔
 السربۃ۔ قریب کا سفر، مشک کی سیون السربۃ۔ ہرنوں گھوڑوں وغیرہ کا ریوڑ۔ راستہ۔ انگور کی بیلوں کی قطار۔ کھجور کے درختوں کا جھنڈ۔ بیج سینہ سے پیٹ تک کے بال۔ ج۔ سرب۔
 السراب۔ دوپہر کی چمپلاقی دھوپ میں پانی کی طرح نظر آنے والی ریگستانی ریت۔ جھوٹ و فریب کے لیے یہ ضرب المثل ہے۔ کہتے ہیں "هو آخذ من السراب" وہ سراب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ اور فریبی ہے۔
 السارب۔ فا۔ صاف ظاہر۔ واضح۔ (السرب) سیدھا جانے والا۔
 المسرب۔ ج۔ مسارب۔ راستہ۔ مسرب الماء۔ پانی بننے کا راستہ۔
 المسربۃ والمسربۃ۔ چراگاہ بیج سینہ سے پیٹ تک کے بال۔ آنسو بننے کی جگہ۔ دبر۔ ج۔ مسارب۔
 المسرب۔ لمبا۔ تیز بننے والا پانی۔ سربخ۔ دوپہر کو چلنا۔ آرام سے چلنا۔ چست و چالاک ہونا۔
 السربخ۔ دور تک پھیلا ہوا بیابان جو آدمی کو بھٹکا دے۔ قفر (سرباخ و مسربخ) دور تک پھیلا ہوا بیابان جو راہ چلنے والے کو بھٹکا دے۔ گم کر دے۔
 سربلۃ۔ قمیص پہنانا۔ کرتا پہنانا۔ تسربل بالسربال۔ قمیص پہننا۔
 السربال۔ قمیص یا ہر پہنا جانے والا لباس۔ ج۔ سربیل۔
 سرب دس۔ سرجا۔ جھوٹ بولنا۔ المرأة شحہا۔ عمدت کا بالوں کو گوندھنا۔ بالوں کی چوٹی بنانا۔

سرج دس۔ سرجا۔ جھوٹ بولنا۔ حسین چہرہ والا ہونا۔
 سرج۔ الشیء۔ چیز کو خوبصورت بنانا۔ سرجۃ اللہ۔ توفیق دینا۔
 سرج۔ الشعر۔ بال گوندھنا۔ بالوں کی چوٹی بنانا۔ الحدیث بات گھر لینا۔ کہتے ہیں "انک یسرج الاحادیث"۔ تسرجا۔ وہ جھوٹی باتیں گھڑتا ہے عوام کہتے ہیں "سرج الثوب"۔
 یعنی اس نے سلانی کے دور دور ٹانگے لگائے صحیح لفظ سرج ہے۔
 اسرج۔ الفرس۔ گھوڑے پر زین کنا۔ السراج۔ چراغ روشن کرنا۔
 تسرج۔ علیہ۔ جھوٹا لگانا کرنا۔
 السرج۔ زین۔ ج۔ سرج۔
 السراج۔ چراغ۔ ج۔ سرج۔
 سراج اللیل۔ جگنو۔
 السراج۔ تلوں کا تیل۔ اس کو "شیرج" بھی بولتے ہیں۔
 السراج۔ جھوٹا۔ زین ساز۔ السراجۃ۔ زین سازی۔
 الاسرفجۃ۔ جھوٹ۔
 السریجات۔ سرج لوہار کی بنائی ہوئی تلواریں۔
 المسرجۃ۔ چراغ دان۔ ج۔ مسارج۔
 المسرجۃ۔ چراغ۔ ج۔ مسارج۔
 السرجین والسرجین والسرجون۔ گوبر سرجین (دس) سرجا و سرجا۔
 الموائشی۔ مویشی کا چرنے کے لیے جانا۔ السیل۔ سیلاب کا آہستہ آہستہ بہنا۔ سرجا، الموائشی۔ مویشی کو چرنے کے لیے بھیجنا۔ سرجۃ۔
 بھیجنا۔ سرجہا فی صدرہ۔ دلی بات کو کھولنا۔
 سرج دس، سرجا۔ الرجل۔ کسی کا



اپنے معاملات کے لیے نکلتا
 سَرَحَ - المَوَاشِی - مویشی کو چرنے کے
 لیے بھیجا - القوم - آزاد کر دینا -
 چھوڑ دینا - الزَّوْجَةُ - بیوی کو طلاق
 دینا - اسم السَّراج - ہے - إِلَیْهِ
 رُسُلُ - پیغامبر بھیجنا - الْأَمْرُ
 کام کو آسان کرنا - اللَّهُ فَلَانَا
 لِلْخَيْرِ - کسی کو بھلائی و نیکی کی
 توفیق دینا - الشَّعْرَ - بالوں میں
 لگھا کرنا - عَنْهُ - کھول دینا -
 السَّرْحَتِ - الدَّابَّةُ - جانور کا نرم اور
 تیز چلنا - الرَّجُلُ - پاؤں کھول کر
 چرت لیٹنا - ننگا ہونا -
 سَرَحَ - مِنَ الْمَكَانِ - نکلتا - عَنْهُ
 کھولا جانا - ابْتَتَانِ - کتان کے اجزا
 کا جدا جدا ہونا -
 السَّوْحَ - مَع - مویشی - جانور - گھر کا مھن -
 لمبا درخت یا بے خار درخت - واحد
 (سَرْحَتٌ) - ج - سُرُوحٌ -
 السَّرْحَةُ - جوان گدھی جو ابھی گیا مھن نہ ہوئی
 ہو - خَيْلٌ سُرُوحٌ وَنَاقَةٌ سُرُوحٌ -
 تیز و نرم رفتار گھوڑا یا اونٹنی - عَطَاءٌ
 سُرُوحٌ - بلا ٹال ٹول فوری بخشش -
 السَّرْحَانُ - بھیڑ یا شیر - حوض کا درمیان
 ج - سَرَاجٌ وَ سَرَاجٌ وَ سَرَاجِيْنُ
 ذَنْبُ السَّرَاجِ - بوج کا ذب -
 السَّرْحَانَةُ - موت السَّرْحَانُ -
 السَّرِيحُ - مِنَ الْأُمُورِ - سہل - آسان -
 جلدی کیا ہوا - جلدی - السَّرِيحُ
 مِنَ الْخَيْلِ - ننگی پیٹھ کا گھوڑا -
 السَّرِيحَةُ - جوتا وغیرہ سینے کا تسمہ -
 کپڑے کا ٹکڑا - تنگ راستہ - ج -
 سَرَايِحُ -
 السَّارِحُ - فَا - اونٹوں کو چرانے والا چرواہا -
 مویشی - مَوْتٌ - سَارِحَةٌ -

السَّرْحُ - ج - مَسَارِحُ وَ الْمَسْرَحَةُ - لکھی
 الْمَسْرَحُ - چراگاہ - ج - مَسَارِحُ -
 الْمُنْسَرِحُ - شرکی بخروں میں سے ایک بحر
 (وَالسَّرِيَا حُ) مِنَ الْخَيْلِ - تیز
 رو گھوڑا - رَجُلٌ سَرِيَا حٌ - دراز
 آدمی -
 السَّرَا حُ - تسمیح کا اسم - کہتے ہیں -
 "لَا فَعْلَهُ فِي سَرَا حٍ وَوَا حٍ" اس
 کو آسانی سے کرو -
 السَّرْحُوبُ - گیدڑ - متناسب الاعضاء لمبا
 آدمی -
 السَّرْحَالُ - بھیڑیا -
 سَرَدَنَ (ض) سَرَدٌ أَوْ سَرَادٌ -
 الْجِلْدُ - چمڑا سینا - الشَّيْءُ -
 سوراخ کرنا - الدَّرْعُ - زرہ بننا -
 الْحَدِيثُ أَوْ الْقِرَاقَةُ - اچھی
 طرح بیان کرنا یا پڑھنا - اچھی طرح
 رواں کرنا - الصَّوْمُ - لگاتار
 روزے رکھنا - الْكِتَابُ - کتاب
 کو تیزی سے پڑھنا -
 سَرَدَ وَ سَرَدَ (ر) سَرَدًا - مسلسل
 روزے رکھنا -
 سَرَدَ وَ اسْرَدَ - الدَّرِيحُ وَ نَحْوُهُ
 چمڑا سینا - النَّخْلُ - درخت خرما کا
 پانی نہ ملنے سے مرجھا جانا -
 سَرَدَ - الدَّرُ - موتیوں کا ترتیب وار
 پر جانا - کہتے ہیں - سَرَدَ دَمْعُهُ
 کما یَسْرُدُ الْوَلُوءُ یعنی موتیوں
 کی طرح اس کے آنسوؤں کی لڑی بندھ
 گئی -
 السَّرْدُ - مَص - زرہ - زرہ کی کڑیاں -
 مَجْمُوعُ سَرَدٍ - ساتھ ساتھ ایک
 قطار کے ستارے -
 السَّرْدُ - مَص - لگاتار ہونا -
 السَّرَادُ - پانی نہ دیا جانے سے پھل کی

پشمر دگی -
 السَّرَادُ وَ السَّرِيدُ وَ الْمَسْرَدُ - ستالی -
 السَّرْدُ - زبان - دُہری سلائی کا
 جوتا -
 السَّرَادُ - زرہ ساز -
 الْمَسْرُودُ وَ الْمَسْرَدُ وَ الْمَسْرُودَةُ - زرہ
 السَّرْدَا بٌ - ترخانہ - ج - سَرَادِيْبٌ -
 سَرَدَجَةٌ - مہل چھوڑنا - سَرَدَحَةٌ
 بیکار چھوڑنا
 السَّرْدَا حُ وَ السَّرْدَا حَةُ - مہی مضبوط اونٹنی
 کیلے کے درختوں کا جھنڈ - واحد -
 (سَرْدَا حَةُ) اَرْضٌ سَرْدَا حٌ -
 ہموار زمین - دور کی زمین - ج - سَرَادِيْحُ
 وَ سَرَادِيْحُ -
 سَرَدَقٌ - الْبَيْتُ - پر وہ لگانا شامیانہ
 لگانا - خیمہ لگانا -
 السَّرَادِقُ - شامیانہ خیمہ - امیر چھایا ہوا
 خنبار یا دھواں - ج - سَرَادَقَاتٌ -
 سَرَسٌ (ر) سَرَسًا - بذوق ہونا بے عقلی
 کے بعد عقل مند ہونا - جہالت کے بعد
 دانا ہونا -
 السَّرِيْسُ - دانا - مقبوضہ چیز کی حفاظت
 کرنے والا -
 سَرَسَرٌ - الشَّقَرَةُ - دھار تیز کرنا -
 السَّرَسُورُ - دانا - زیرک - پیارا - خالص ساتھی
 کہتے ہیں - "هُوَ سَرَسُورٌ هَالٍ" وہ
 مال کا بہت اچھا منتظم ہے - اور اس
 کے مصارع سے خوب واقف ہے -
 السَّرِيْسَامُ - دماغ کی ایک بیماری -
 سَرَطَنٌ وَ سَرَطَانٌ - سَرَطَانٌ وَ سَرَطَانٌ
 سَرَطَانًا وَ سَرَطَانًا وَ اسْتَرَطَ -
 الشَّيْءُ - نکلنا -
 السَّرَطُ - الشَّرَابُ فِي حَلْقِهِ - حلق
 میں آسانی سے اتر جانا -
 السَّرَا طُ - صاف کھلا راستہ -

السَّرَاطُ - مِنَ السَّيُوفِ - تيز کاٹنے والی تلوار۔
 السَّرَاطِيُّ - شمشیر برائے (د) و السَّرَطُ و السَّرَوَاطُ و السَّرَطَةُ و السَّرَطِيَّةُ - جلد نکل جانے والا۔
 بہت کھانے والا۔ السَّرَطُ - تیز چلنے والا۔
 السَّرَطَانُ - مص - کیکڑا۔ برج سرطان۔
 ایک پھوٹا جس میں رگیں کیکڑے کے پاؤں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ انگریزی میں اس کو کینسر کہتے ہیں۔ "فوس" سَرَطَانُ اَوْ سَرَطَانُ الْجَوِي - بہت تیز رفتار گھوڑا۔
 السَّرَطُ و السَّرَطُ - خوراک نکلنے کی نالی۔ جلدی کھانے والا۔ سَرَطَعُ - ڈرک و جہ سے تیز دوڑنا۔
 السَّرَطَلُ و السَّرَطَمُ - لمبا بے ڈول۔
 السَّرَطَمُ و السَّرَطِمُ - بہت کھاؤ پیو۔
 سَرَعُ دَسْ و سَرَعُ دَكْ - سُرْعَةُ و سَرَعًا و سَرَعًا و سَرَعًا و سَرَعًا و سَرَعًا - جلدی کرنا۔
 سَارِعَ - اِلَيْهِ - جلدی کرنا۔
 الْاَمْرُ - كِبَشَشْ - کرنا۔
 اَنْسَرَ - فِي الْمَشْيِ - جلدی چلنا۔
 تَسَارَعُ و تَسَرَّعُ - اِلَى الْاَمْرِ - کسی امر کی طرف سبقت کرنا۔ تیزی کرنا۔
 تَسَرَّعَ - بِالْاَمْرِ - سبقت کرنا۔
 تَسَرَّعَ الْاَمْرُ - جلد ہونا۔
 السَّرْعُ و السَّرْعُ - انگور کی تازہ نازک شاخ۔
 السَّرْعُ - ہر تازہ نازک شاخ۔
 السَّرْعُ - السَّرْعُ - اسم فعل
 بمعنی جلدی کرنا۔ کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ کہتے ہیں "لَسَرْعَانَ مَا فَعَلْتَ"۔ تم نے کیسی جلدی کی۔

سَرَعَانُ و سَرَعَانُ - الْقَوْمُ اَو الْخَيْلُ - سب سے آگے کے لوگ یا گھوڑے۔
 السَّرِيعُ - جلدی کرنے والا۔ سَرَعَانُ - مَوْنُثُ - سَرِيعَةُ - ج - سَرَاخُ - شرکی بحروں میں سے ایک بحر۔
 السَّرِيعُ و السَّرَعَانُ - جلد باز۔ مَوْنُثُ سَرَعِي -
 الْاَسَارِيعُ - کمان کی لکیریں۔ سفید جسم سرخ سروالے کپڑے۔ واحد۔
 (اَسْوَعُ و يَسْرُوْعُ)
 الْمُسْرَعُ و الْمُسْرَاعُ - جلدی کرنے والا۔
 ج - مَسَارِعُ - و مَسَارِيعُ -
 سَرِيعُ دَسْ - سَرَعًا - انگور کے پچھے ڈنڈیوں کے ساتھ کھا جانا۔
 السَّرْعُ - انگور کی شاخ۔ ج - سُرُوْعُ -
 سَرَفَتْ دَن - سَرَقًا - السَّرَفَةُ الشَّجَرَةُ - کپڑے کا درخت کے پتوں کو کھا جانا۔
 - الْأَمْرُ لَوْلَا هَا - ماں کا بچہ کو زیادہ دودھ پلانے کی وجہ سے بیمار ڈال دینا۔
 سَرِقَ (رَس) سَرَقًا - الْأَمْرُ - کسی کام کو بھلانا۔ جاہل ہونا عطا کرنا۔ کہتے ہیں "مَا فِي عَطَايِهِمْ مَنْ وَلَا سَرَقٌ" یعنی ان کی بخشش غلطی سے پاک ہے۔ نہ کسی پر احسان جتانے میں، نہ مستحق کو چھوڑ کر غیر مستحق کو دیتے ہیں۔
 سَرِقَ - الْقَوْمُ - تجاوز کرنا۔
 الطَّعَامُ گھن گھنا - الرَّجُلُ بِالْخَمْرِ - شراب کا عادی اور بہت دلدادہ ہونا۔
 اَسْرَفَ - الْمَالُ - فضول خرچی کرنا۔
 فِي كَذَا - حد سے تجاوز کرنا۔ زیادتی کرنا۔ خطا کرنا۔ جاہل ہونا۔ غافل ہونا۔
 صفت (مُسْرِفٌ)

السَّرْفَةُ - سرخ جسم سیاہ سروال کپڑا۔ گھن۔
 السَّرَفُ - اعتدال کی حد کو چھوڑنا۔ میانہ روی کو نظر انداز کرنا۔ خطا۔ السَّرَافُ - سرخ کپڑے کا درخت کے پتوں کو کھا جانا۔ "رَجُلٌ سَرَفَ الْفَوَادِ" - غافل آدمی۔ سَرِفُ الْعَقْلِ - کم عقل یا فاسد العقل۔
 السَّرُوفُ - سخت۔ بڑا۔ السَّرِيفُ - انگور کی بیلوں کی قطار۔
 سَرَقَ (رَض) سَرَقًا و سَرَقًا و سَرَقَةً و سَرَقَةً - عَنْهُ الشَّيْءُ و سَرَقَهُ الشَّيْءُ - چرانا۔ کہتے ہیں "سَرَقُوا لَيْلَةً مِنَ الشَّهْرِ" جبکہ اس رات کو بڑی عیش و عشرت سے گذاریں۔
 سَرَقْتَنِي - میری آنکھ مجھ پر غالب آگئی۔
 سَرِقَ - الرَّجُلُ - کسی کے گھر میں چوری ہونا۔ صَوْنُهُ - آواز بیٹھنا۔
 صفت (مُسْرِفُ الصَّوْتِ) -
 سَرِقَ (رَس) سَرَقًا - الشَّيْءُ - پوشیدہ ہونا۔ سَرَقْتُ مَفَاصِلَهُ - کمزور جوڑوں والا ہونا۔
 سَرَقَهُ - کسی کی طرف چوری کی نسبت کرنا۔ سَرَقَ الشَّيْءُ - چیز چرانا۔
 سَارَقَهُ - النَّظَرُ - ایک دوسرے پر اچھٹی نظر ڈالنا۔ دزدیدہ نگاہ سے دیکھنا۔
 سَارَقَ النَّظَرَ اِلَيْهِ - کسی کو دیکھنے کے لیے موقع چرانا۔
 تَسَرَّقَ - تَهَوَّاهُ تَهَوَّاهُ - النَّظَرُ اَوْ السَّمْعُ - چوری سے دیکھنا یا سننا۔
 اِنْسَرَّقَ - عَنْهُ - جانے کے لیے پیچھے ہٹنا۔
 جوڑوں کا کمزور ہونا۔ سست ہونا۔
 اِسْتَرَقَ - مِنْهُ الشَّيْءُ - چرانا۔ السَّمْعُ - چوری پیچھے سننا۔ الْكَاتِبُ بَعْضُ الْمَحَاسِنَاتِ - چھپا لینا۔ ظاہر نہ کرنا۔



السَّرِقَةُ - مص - چرائی ہوئی چیز۔
 السَّارِقُ - فاعل - سر - سرقہ - وسَّارِقٌ و
 سَارِقُونَ۔
 السَّرَقَةُ - مص - ریشی کپڑے کا ٹکڑا - ج۔
 سَرَقٌ۔
 السَّرَاقَةُ - چرائی ہوئی چیز۔
 الْمُسْتَرَقُّ - فاعل ناقص کمزور - مُسْتَرَقُّ
 الْعَنْقُ - کوتاہ گردن۔
 الْمُسْرَقُ - ترش نبیز۔
 السَّرْقَيْنِ وَالسَّرْقَيْنِ - گوبر کھاد۔
 سَرَكٌ دس سَرَكَا - قوت کے بعد بدن
 کا کمزور پڑنا۔
 سَرَوَكَ وَتَسَرَوَكَ - بڑھاپے یا تکان
 کی وجہ سے آہستہ چلنا۔ سَت چلنا۔
 سَرَمَةً - ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 تَسَرَّمَ - ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
 السَّرْمُ - مستقیم آنت کا ٹکڑا - ج۔
 أَسْرَامٌ۔
 السَّرْمُ - دُبر کا درد۔
 السَّرْمَانُ - زرد و سیاہ بھڑ۔
 السَّرْمَدُ - دائم ہمیشہ - کِلْ سَرْمَدٌ۔
 لمبی رات۔
 السَّرْمَدِيٌّ - جس کا نہ اول ہو نہ آخر۔
 تَسَرَّمَطٌ - الشَّعْرُ - بالوں کا ہلکا اور
 کم ہونا۔
 السَّرْمَطُ وَالسَّرَامِطُ وَالسَّرَوَمَطُ
 وَالْمُسَرَّمَطُ وَالسَّرَمِطُ لمبی چیز
 رَجُلٌ سَرَوَمَطٌ ہر ایک چیز نکل
 جانے والا آدمی۔
 سَرَهْدٌ - السَّامُ - کوہان کا ٹٹا۔
 الصَّبِيٌّ - بچہ کو ابھی طرح خوراک دینا۔
 السَّرَهْدُ - کوہان کی جہنی - بہت پانی۔
 الْمُسَرَهْدُ - مفع - فربہ - موٹا۔
 سَرَهَفٌ - الْغَدَاءُ - غذا کو عمدہ بنانا۔
 الصَّبِيٌّ - بچہ کو ابھی خوراک کھلانا۔

سَرَايَسُ وَسَرَوَا - سَرَتِ الْجَوَادَةُ
 ٹٹھی کا انڈے دینا - وَسَرَى
 تَسْرِيَةً وَأَسْرَى (سَرَاءٌ) -
 الثَّوبُ عَنْهُ - کپڑے اتارنا۔
 سَرَايَسُ وَسَرَوَا وَيَسْرُو وَسَرَى
 لَيْسَرَى سَرَقًا وَسَرَاوَةً و
 سَرَاوَةً سَرَاءً - مروت اور سخاوت
 والا ہونا۔
 سُرَى وَأَسْرَى السَّرَاءُ - عَنْهُ
 الْقَهْمُ - کسی کا فکر و رہنا۔ سُرَى
 الْقَوْمُ - قوم کے سردار کا راجہانا۔
 سَارَاةٌ مُسَارَاةٌ - ایک دوسرے
 پر فخر کرنا۔
 تَسْرَى تَسْرِيًا - بناوٹی مروت و سخاوت
 بتانا نظر نہ کرنا۔ لٹھی بنانا۔
 اسْتَرَى اسْتِرَاءً - اختیار کرنا۔ چننا۔
 الْمَوْتُ الْقَوْمُ - قوم کے سرداروں
 میں موت پھیلنا۔
 السَّرَوُ - مص - فضل، مروت۔ سَرَوَا
 درخت - واحد - (سَرَوَةٌ)
 السَّرَوَةُ وَالسَّرَوَةُ وَالسَّرَوَةُ - چھوٹا
 تیر، بعض کے نزدیک پوڑے پھل کا تیر
 ج۔ سَرَوَى وَسَرَى -
 السَّرَاةُ - پیٹ، دن کی چڑھاٹی - مِنْ
 الطَّرِيقِ - راستہ کا بیچ - ج۔
 سَرَوَاتٌ - وَسَرَوَاتُ الْقَوْمُ - قوم
 کے سردار۔
 السَّرِيٌّ - صاحب شرف و مروت اور
 فیاض، سخی، شریف سردار، عمدہ چیز۔
 ج۔ سُرَى وَسَرَاةٌ وَسَرَاةٌ و
 أَسْرِيَاءٌ وَسَرَوَاءٌ - مَوْنٌ -
 سَرِيَّةٌ - ج۔ سَرِيَّاتٌ وَسَرَايَا -
 سَرَوَلَةٌ - پانجامہ پہنانا۔ تَسْرَوَلٌ -
 پانجامہ پہنانا۔
 السَّرَوَالُ وَالسَّرَوَالَةُ وَالسَّرَوِيلُ

پانجامہ - مَوْنٌ ہے کبھی ذکر بھی آتا
 ہے ج۔ سَرَاوِيلٌ قَوْنٌ مَسْرَوَلٌ
 بازوؤں اور رانوں سے آگے بڑھی ہوئی
 سفیدی والا گھوڑا۔
 سَرَى لَيْسَرَى سُرَى وَسَرِيَّةٌ و
 سُرِيَّةٌ وَسَرَايَةٌ وَسَرِيَانًا و
 مَسْرَى او اسْتَرَى - رات میں چلنا
 صفت (سَارٍ) - ج۔ سَرَاةٌ -
 وَسَرَى یہ رات کو سفر کرنا۔ و
 سُرَى عَذَقُ الشَّجَرِ - درخت کی جڑیں
 زمین کے اندر اندر پھیلتی چلی گئیں -
 سُرَى الدَّمُ فِي الْعُذُقِ - خون کا
 رگوں میں برابر دوڑنا۔ السَّهْدُ غم
 جاتا رہنا۔ سُرَى الْجَوْحُ إِلَى النَّفْسِ -
 زخم کا اثر انداز ہو کر آخر جان لیوا ہونا۔
 سُرَى - عَنْهُ - غم یا غصہ کا زائل ہونا۔
 أَسْرَى اسْتِرَاءً - رات میں چلنا -
 الرَّجُلُ - کسی کا کشادہ، اونچی زمین کی
 طرف جانا۔
 سُرَى - عَنْهُ أَوْ عَنْ قَلْبِهِ - کسی کا فکر
 دور کرنا۔ قَائِدُ الْجَيْشِ - کمانڈر کا دستہ
 فوج بھیجنا۔
 سَارَى - صَاحِبُكَ رات میں ساتھی کے
 ساتھ چلنا۔
 السُّرَى وَالسَّرِيَانُ وَالسَّرِيَّةُ - مصادر
 رات کو چلنا۔ رات کا سفر۔ عرب کہتے
 ہیں "الصَّبَا يَجْهَدُ الْقَوْمُ
 السُّرَى" یہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے
 جہاں بتانا ہو کہ مشقت برداشت کرنے
 سے ہی راحت کی امید نظر آتی ہے۔
 ابْنُ السُّرَى - رات کا مسافر۔
 السَّرِيَّةُ - ٹٹھی کا بچہ۔
 السَّرَاةُ - ہر شے کا بلند حصہ۔ سَرَاةٌ
 الْجَبَلِ - پہاڑ کی پہوٹی۔ سَرَاةٌ
 الضُّحَى - چاشت کا شروع۔

السَّوَاءُ - ایک درخت جس سے کماتیں بناتے ہیں۔ واحد
السَّوَاءُ رات کو بہت چلنے والا۔
السَّارِي - فا۔ ج۔ سَوَاةً - والمَسَارِي
والمُسْتَرِي (شیر۔
السَّارِيَّةُ - مؤنث السَّارِي - رات کو
چلنے والی جماعت۔ رات کو آنے والا
بادل۔ ستون۔ تخم۔ ملاحین کی اصطلاح
میں متول۔ ج۔ سَرَار۔
السَّرَايَةُ وَالسَّرَايَا - قصر شاہی (فارسی
کلمہ ہے)
السَّرِيَّةُ - چھوٹی نہر۔ ج۔ اَسْرِيَّةٌ و
سَرِيَانٌ۔
السَّرِيَّةُ - فوج کا دستہ۔ تیر کا چھوٹا گول
پھل۔ ج۔ سَرَايَا۔
السَّاسِبُ وَالسَّيْسِبُ وَالسَّيْسِبُ - ایک
درخت جس کی لکڑی سے تیر بناتے ہیں
السَّيْسِبَانُ - ایک درخت کا نام۔
السُّطُطُ - لمبی ٹانگوں والا آدمی۔
السُّطُطُ - ظالم لوگ۔
السُّطْبَةُ وَالْمُسْتَبَةُ - چبوترہ، اہرن
ککشاں۔ سائوں کے جمع ہونے کی
جگہ۔ سرائے۔ ج۔ مَسَاطِبُ رِصَادٍ
کے ساتھ بلیغ تر ہے۔
السُّطْبَةُ (ف) سَطْبًا - بچھانا، بچھاؤنا۔
لٹانا۔ ر۔ و سَطْبًا (البیت) گھر
کی چھت کو ہموار کرنا۔ سَطْبًا و سَطْبًا۔
الْفَاقَةُ - اونٹنی کو بٹھانا۔
السُّطْبُ - ہموار ہونا۔
السُّطْبُ - چت لیٹنا۔ پھیلنا۔
السُّطْبُ - مم۔ مکان کی چھت۔ ہر بلند
اور اوپر سے چڑی چیز ج۔ سَطْبُ ج۔
السُّطْبُ - پھیلا ہوا۔ کمزوری یا بیماری
کے باعث سستی سے اٹھنے والا۔
و السُّطْبُجَةُ (م) مشک۔

السُّطْحُ - زمین پر پھیلی ہوئی بیل یا گھاس
واحد (سُطْحًا حَتَّى)
الْمُسْطَحُّ - برابر کرنے کا ادوار۔ بیلن۔
خیمہ کا ستون۔ کھلیان۔ خسرمن۔
کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ۔ (۔
والمُسْطَحُّ) کھجور کی شاخوں کی چٹائی
أَنْفُ مَسْطَحٍّ - چپٹی ناک۔
سَطْرَةٌ (ن) سَطْرًا - لکھنا۔ کُ یا
لَسْتِيفٌ - تلوار سے کاٹنا۔ سَطْرٌ
الرَّجُلُ - کسی کو پچھاڑنا۔
سَطْرٌ - قفصے بنانا۔ بے اصل باتیں جمع
کرنا۔ عَلَيَّہِ بے اصل اور ظلمات
سے مشابہ باتیں بیان کرنا۔ قفصے
سنانا یا بیان کرنا۔ الْفَرْطَانُ -
سطر میں برابر کرنے کے لیے کاغذ پر
لکیریں کھینچنا۔
السُّطْرُ - پڑھنے میں غلطی کرنا۔
السُّطْرُ - لکھنا۔ کہتے ہیں "هَذَا
مُسْتَطْرٌ" یعنی یہ لکھا ہوا ہے۔
السُّطْرُ - لکیر۔ قطار۔ تحریر کی سطر۔ ج
أُسْطُرٌ وَسُطُورٌ وَأُسْطَارٌ وَجَج
أَسَاطِيرُ - کہتے ہیں "إِنْ هَذَا
إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ" یہ تو انگوٹوں
کی محض بے سند اور بے بنیاد باتیں
میں جو اسی طرح چلی آرہی ہیں۔
السُّطْرَةُ - آرزو، امید، خواہش
الْأُسْطَارُ وَالْأُسْطَارُ وَالْأُسْطُورُ
وَالْأُسْطِيرُ - ہر وہ چیز جو کبھی جائے
ج۔ أَسَاطِيرُ - "الْأُسْطُورَةُ"
الْأُسْطُورَةُ - بے اصل و بے بنیاد
بات۔
السَّاطِرُ وَالسَّطَارُ - قصاب۔
السَّاطِرُ - گوشت کا ٹٹے یا بڈی وغیرہ
توڑنے کا قصاب کا گجدا۔ ج۔
سَوَاطِيرُ۔

السُّطْرَةُ وَالْمُسْطَرَّةُ - کاغذ پر لکیریں
کھینچنے کا رولر۔ ج۔ مَسَاطِرُ۔
المُسْطَارَةُ وَالْمُسْطَارَةُ - تیز اور پینے
والے کو پچھاڑ دینے والی شراب۔ پکانے
سے پہلے انگور کا شیرہ، بلند غبار۔
سَطْرٌ (ن) سَطْرًا وَسُطُوعًا و
سَطْرًا - الْعَبَارُ أَوِ الْوَاخَةُ أَوِ
النُّورُ - غبار یا بویا روشنی کا بلند ہو کر
پھیل جانا۔ يَكْدُ يَكْدًا - تالی بجانا۔
ر۔ سَطْرًا، رَاسَةً - گردن دراز
کرنا اور سر اٹھانا۔ الْبَعِيرُ - اونٹ
کی گردن یا پہلو پر لمبا داغ لگانا۔
سَطْرٌ (ن) سَطْرًا - دراز گردن ہونا۔
صفت (أَسْطَحٌ) - مؤنث۔ سَطْعَاءُ۔
سَطْعَةٌ - بلند کرنا۔ پھیلانا۔ اٹھانا۔
الْبَعِيرُ - اونٹ کے لمبا داغ لگانا۔
السُّطْرُ - مص۔ ہر چیز بلند ہو کر پھیل جانے
والی۔
السُّطْرُ - تالی۔ تالی کی یا تیر پھینکنے کی
آواز۔
السُّطْرُ - لمبا اونٹ۔ خیمہ یا گھر کا سب سے
لمبا ستون، اونٹ کی گردن یا پہلو کا لمبا
داغ۔ ج۔ سَطْرٌ وَاَسْطَعَةٌ۔
السُّطْرُ - صبح۔ لمبا۔
السُّطْرُ - خوش بیان۔ فصیح۔ کہتے ہیں
"خَطِيبٌ مُسْطَعٌ وَمِصْقَعٌ" یعنی مقرر
فصیح و بلیغ ہے۔
سَطْلَةٌ (ن) سَطْلًا - الدَّوَاءُ - دوا
کا کسی کو مدد بخش کرنا۔ نشہ دینا۔
السُّطْلُ - مدد بخش ہونا۔
"جَاءَ يَتَسَطَّلُ" وہ اکیلا آیا۔
السَّاطِلُ - مِنَ الْغُبَارِ - بلند غبار۔
السُّطْلُ - تانے کا ایک دستہ والا برتن۔
ج۔ أَسْطَالٌ وَسُطُولٌ - لمبے قد والا
آدمی۔



الْأُسْطُولُ - جہازوں کا بیڑا عجمی کلمہ ہے۔

ج - آسَاطِيلُ -

سَطْمٌ (ن) سَطْمًا - الباب - دروازہ بند کرنا۔

السَّطَامُ - آگ جلانے کی کرلینی۔ بوتل کا ڈاٹ یا کارک۔ تنوار کی دھار۔

السَّطْمُ - مص - تنوار کی دھار۔

السُّطُومُ - جڑیں۔

الْإِسْطَامُ - آگ جلانے کی کرلینی۔

الْأُسْطُمُ وَالْأُسْطُمَةُ - مِنْ كُلِّ

شَيْءٍ هَرَجَزٍ كَاوَسْطٍ يَبْطُرُ أَحْصَ - مِنْ

الْبَحْرِ - سمندر کا بڑا حصہ۔ کہتے ہیں

”لَيْلٌ طَبَا أَسْطُمَةٌ“ رات کی

تاریکی بہت بڑھ گئی۔ ”هُوَ فِي

أَسْطُمَةٍ قَوْمِيَّةٍ“ وہ اپنی قوم کے

اشراف میں ہے۔ ج - آسَاطِمُ

السَّاطِنُ - ضیغ۔ الْاُسْطُونُ - مِنْ

الْجِبَالِ - لمبی گردن کا اونٹ۔

الْاُسْطُوَانَةُ - ستون۔ تھم۔ جانور کی

ٹانگ۔ ج - آسَاطِلُنُ - کہتے ہیں۔

”هُمُ آسَاطِلُنُ الزَّمَانِ“ وہ کیتائے

روزگار ہیں۔

المُسْطَرَجُ - لمبی ٹانگوں والا۔

سَطًا يَسْطُو سَطْوًا اَوْ سَطْوَةً -

بلے و علیہ۔ کسی پر حملہ کر کے

مغلوب کرنا۔ الْفَرْسُ گھوڑے کا

چوڑے چوڑے قدم اٹھاتے ہوئے

دوڑ پڑنا۔ الْمَاءُ - پانی کا زیادہ ہونا۔

”مَا سَطَوْتُ فِي طَعَامٍ أَحَدٍ“ میں

نے کھانے کو نہیں چکھا۔

سَاحَى - الرَّجُلُ - سختی یا نرمی کا برتاؤ

کرنا۔

السَّاحِلُ - فا۔ دور دور قدم رکھنے والا

گھوڑا۔ دم اٹھا کر دوڑنے والا گھوڑا۔

تَسَعَّبَ - الشَّيْءُ - تار سا کھینچنا، جس

طرح شہد کے شیرہ وغیرہ سے۔

لَتَسَعَّبَ - الْمَاءُ - پانی ہلنا۔

السَّعْتَرُ - پہاڑی پودینہ۔ بہترین لفظ

”صَعْتَرٌ“ ہے۔

السَّعْتَرِيُّ اَوِ الصَّعْتَرِيُّ - بہادر، سختی،

چالاک۔

سَعَدَ (ن) سَعَدًا اَوْ سَعُودًا - الْيَوْمُ

دن کا مبارک ہونا۔

سَعِدَ (ن) اَوْ سَعِدَ سَعَادَةً - نیک بخت

ہونا۔ خوش نصیب ہونا۔ صفت۔

(سَعِيدٌ) - ج - سَعِدَاءُ و

(مَسْعُودٌ) - ج - مَسَاعِيدُ -

سَاعِدَةٌ - عَلَى الْأَمْرِ کسی کام پر

مدد کرنا۔

أَسْعَدَهُ - عَلَى الْأَمْرِ - مدد کرنا۔

أَسْعَدَهُ اللَّهُ - النَّاسُ كُنُيَا بَخْت

کرے۔ صفت (مَسْعُودٌ)

تَسَعَّدَ - مبارک ہونا۔ الرَّايِجُ -

چرواہے کا سعدان گھاس کی چیرا گاہ

تلاش کرنا۔

اِسْتَسَعَّدَ - بِالشَّيْءِ - چیز کو اپنے لیے

مبارک خیال کرنا۔

السَّعْدُ - بَرَكَةٌ - خوش نصیبی۔ ج -

أَسْعَدُ اَوْ سَعُودٌ - کہتے ہیں لَيْلِيَا

وَسَعْدِيَا - میں تمہاری خدمت کے

لیے بار بار حاضر ہوں۔ سَعُودٌ

النَّجُومُ - دس ستارے جن میں سے

ہر ایک ستارہ سعد کہلاتا ہے۔

السَّاعِدُ - فا۔ سرور ”هَآلَهُمْ سَاعِدًا

يَعْتَمِدُونَ“ ان کا کوئی رئیس نہیں

کہ اس پر بھروسہ و اعتماد کریں۔ کلائی۔

سَاعِدُ الطَّيْرِ - پرندے کے بازو۔

ج - سَوَاعِدُ - طَائِرٌ شَدِيدٌ

السَّوَاعِدُ - مضبوط بازو والا پرندہ۔

السَّاعِدَةُ - چرخ کا ڈنڈا۔ ج - سَمَوَاعِدُ

نہر یا سمندر میں پانی جانے کے نالے۔

بُڑی کے مغز کی نالی۔ تھن کے دودھ کی

نالی۔ بازو بند۔

السَّاعِدَةُ - نیک بختی۔

السَّعَادِي - زخم بھرنے والی ایک

خوشبودار گھاس۔

السَّعْدَانُ - ایک غار وار بوٹی جو اونٹ

کی مرغوب غذا ہے۔

سُعْدَانٌ - امداد ”سُبْحَانَ اللَّهِ و

سُعْدَانُهُ“ میں خدا تعالیٰ کی پاکی

بیان کرتا ہوں اور اس کی تابعداری

کرتا ہوں۔

السَّعْدَانَةُ كَبُوتَر - پستان کا سرا یا اس

کے آس پاس کی سیاہی۔

السَّعُودَةُ - خوش بختی۔

سَعَدَ (ن) سَعَرًا اَوْ اسْعَرَ - النَّارُ -

آگ جلانا۔ الْبَعِيرُ الْإِبِلُ بِجَوَافِهِ -

اونٹ کا اور اونٹوں میں غارش پھیلا

دینا۔ سَعَرَ الْقَوْمَ شَرًّا - ساری

قوم میں بدی پھیلا دینا۔ سَعَرْنَا هُمُ

هَلَلْنَا - پیوست کرنا۔

سَعَرَ الْإِبِلَ بِالْمَطِيِّ - طے کرنا۔

سَعَرَتِ النَّاقَةُ فِي سَيْرِهَا - اونٹنی

کاتیز دوڑنا۔ صفت (سَعُورٌ)

سَعَرْتُ الْيَوْمَ فِي حَاجَتِي سَعْرَةً -

آج میں اپنی حاجت کے فکر میں سارے

دن جھک کاٹتا رہا۔

سَعَرْتُ (ن) سَعَرَانًا - الْفَرْسُ - گھوڑے

کاتیز دوڑنا۔

سَعِيرٌ - الْبَعِيرُ - اونٹ کا مجنون ہونا۔

صفت (مَسْعُورٌ) - الرَّجُلُ - گرم

ہوا سے مجلس جانا۔

سَعَرَ - النَّارُ - آگ بھڑکانا۔ الشَّيْءُ -

کسی چیز کا اندازہ لگانا اور بھاؤ مقرر

کرنا۔ الْقَوْمُ - قوم کا کسی بھاؤ پر

<p>السَّعَفَةُ - مص. دامن کا جھیز۔ گھر کا سامان واسباب۔ جہ۔ سَعُوفٌ - اونٹ کے منہ کی ایک بیماری، کجھڑ کی شاخ۔ واحد (سَعْفَةٌ) ، السُّعُوفُ - بڑے پیالے۔ انسان کی فطری عادتیں مثلاً جود و کرم وغیرہ۔ اس کا مفرد مسوع نہیں۔ الْأَسْعَفُ - مِنَ الْإِبِلِ - منہ کی بیماری۔ والا اونٹ - مِنَ الْجَبَلِ - سفید پیشانی والا گھوڑا۔ مَوْثٌ - (سَعْفَاءُ) جہ۔ سَعْفٌ - السَّعَافُ - ناخن کے آس پاس سے چٹ اکھڑنا۔ الْمُسَاعِفُ - فَا - قریب، نزدیک۔ سَعَلٌ (ن) سَعَالًا وَسَعْلَةً - کھانسی ہونا۔ دے سَعْلًا، چست ہونا۔ أَسْعَلَكَ - چست بنانا۔ کھانسی پیدا کرنا۔ اسْتَسَعَلْتَ - الْمَرْأَةُ - عورت کا چڑیل سا ہونا۔ بھتی جیسی ہونا۔ السُّعَالُ - کھانسی۔ السَّعَالُ وَالسَّعْلَةُ وَ السَّعْلُ - بھتی یا بھوت جہ۔ سَعَالٌ وَ سَعْلِيَّاتٌ - السَّعَالِيُّ - دوائی کا ایک پودا۔ السَّاعِلُ وَالْمَسْعَلُ - گلا۔ حلق۔ سَعَمَرَفٌ سَعْمًا - البَعِيرُ - اونٹ کا سریع السیر ہونا۔ تیز چال جینا۔ صفت (سَعُومٌ) سَعَمَةً وَ سَعْمَةً - غذا دینا۔ سَيْلٌ مَسْعَامٌ وَمَسْعَامٌ تیز بہنے والا سیلاب۔ أَسْعَنَ - سائبان بنانا۔ بڑا خیمہ لگانا۔ السَّعْنُ - چرئی۔ خالص شراب۔ السُّعْنُ - چرس۔ بڑا ڈول۔ جہ۔ سَعْنَةٌ السَّعْنَةُ - مبارک، منحوس (دند) کھانے کی کثرت یا قلت "هَالِكُ سَعْنَةٍ وَ لَا مَعْنَةَ" اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔</p>	<p>سَعَسَعَ - رَأَسَهُ - سر کو تیل پلانا۔ السُّعْسُعُ - بھیڑیا۔ سَعَطَهُ (ن) سَعَطًا وَسَعَطَةً وَ أَسَعَطَهُ - الدَّاءُ ناک میں دوا ڈالنا۔ أَسَعَطَهُ الرُّمَحَ - اس نے اس کی ناک میں نیزہ مارا۔ أَسَعَطَهُ عِلْمًا - اس نے اس کو علم خوب سمجھایا۔ اسْتَعَطَ - الدَّاءُ ناک میں دوا ڈالنا۔ چڑھانا۔ اسْتَسَعَطَ - ناک میں دوا ڈالنے کو کہنا۔ السَّعِيطُ - خوشبو، بان کا درخت یا اس کا تیل۔ رائی کا تیل (دے والسَّعَاطُ) بو کی تیزی۔ السُّعُوطُ - ناک میں چڑھانے کی دوا۔ نسوار۔ عام لوگ اس کو العطوس بولتے ہیں۔ الْمُسَعُطُ وَالْمُسْعُطُ - نسوار کی ڈبیہ۔ سَعَقَهُ (ن) سَعَقًا - مَحَاجَّتِهِ - کسی کی حاجت روائی کرنا۔ سَعِفٌ (ن) سَعَفًا - ناخنوں کے ارد گرد سے انگلیوں کا پھٹ جانا۔ سَعِفٌ - الْوَجْهُ - چہرہ کا پھنیوں والا ہونا۔ صفت (مَسْعُوفٌ) سَعَفٌ - الْمَسْكُ - مشک کو دوسری خوشبوؤں کے ساتھ ملانا۔ سَاعَقَكَ - مدد کرنا۔ أَسَعَقَكَ - کسی کی حاجت پوری کرنا۔ عَ عَلَى الْأَمْرِ مدد دینا۔ الشَّيْءُ - قریب و نزدیک ہونا أَسَعَقَهُ الصَّيْدُ - شکاری کا موقع دینا۔ أَسَعَفَتِ الْحَاجَةُ - حاجت کا قریب ہونا۔ إِلَيْكَ - توجہ کرنا۔ ارادہ کرنا۔ تَسَعَفْتُ - أَظْفَارُهُ - ناخنوں کا پھٹنا۔ السَّعْفُ - مص۔ سامان۔ رذیل ٹھنسن۔ السَّعْفَةُ - سر یا چہرہ پر نکلنے والی چنسیاں۔</p>	<p>اتفاق کرنا۔ سَاعَرَهُ مَسَاعَرَةً - بھاؤ بھڑانا۔ تَسَعَرَتِ - النَّاسُ - آگ کا جل پڑنا۔ بھڑک جانا۔ الْحَطَبُ - بکری کا آگ پکڑ لینا۔ اسْتَعَرَ - بھڑکنا۔ الشَّوْ - برائی و بدی کا پھیل پڑنا۔ الْجَرَبُ فِي الْبَعِيرِ - اونٹ کی بغل وغیرہ میں کھلی شروع ہونا۔ السَّيْعَرُ - نزع بھاؤ۔ جہ۔ أَسْعَارُ - السُّعُرُ - گرنی۔ بہت بھوک (دے والسُّعُورُ) جنون۔ السَّيْعَرُ - مجنون۔ جہ۔ سَعَوَى - السَّعُورُ السَّعْرَةُ - سیاہی مائل رنگ۔ السَّعْرَةُ - کام کی ابتداء۔ کھانسی۔ السَّعِيرُ - آگ کی لپٹ۔ جہ۔ سَعُورٌ - السَّعَارُ - گرمی۔ بھوک کی تیزی۔ پیاس کی شدت۔ السَّاعُورُ - آگ۔ تنور۔ السَّاعُودَةُ - آگ۔ الْأَسْعُورُ - دلا۔ لاغز جس کے پیٹھے دکھائی دیتے ہوں، سیاہی مائل رنگ والا۔ مَوْثٌ (سَعْرَاءُ) جہ۔ سَعُورٌ - الْمَسْعُورُ - آگ جلانے والا۔ کہتے ہیں هُوَ مَسْعُورٌ حَرْبٍ وہ لڑائی کی آگ بھڑکانے والا ہے۔ سخت۔ دراز گردن دیوانہ کتا۔ (دے والسَّعَارُ) جس سے آگ جلائی جائے۔ الْمَسْعُورُ - پیٹ بھرے پر بھی کھانے کا حریص۔ نَاقَةٌ مَسْعُورَةٌ - دیوانی اونٹنی۔ مَسَاعِرُ - البَعِيرُ - اونٹ کی ران کی جڑیں اور بغل۔ سَعَسَعَ وَ تَسَعَسَعَ - فَلَانٌ - بہت بوڑھا ہونا۔ الشَّيْخُ - بوڑھے کا بوڑھاپے کے سبب لکھڑانا۔ قریب قریب قدم رکھنا۔</p>
---	---	---



السُّعْبَةُ - شامیانہ - خیمہ - اونٹ کا ادھر
 کا لٹکا ہوا ہونٹ - ہر -
 السَّعْوُ وَالسَّعْوَةُ وَالسَّعْوَاءُ - رات
 کی گھڑی -
 الْأَسْعَاءُ - رات کی گھڑیاں - السَّعْوَةُ
 موم - موم - موم -
 السَّعَاوِيُّ - بیداری یا سفر کو بہت صبر سے
 برداشت کرنے والا -
 سَعَى لَيْسَعَى سَعِيًّا - کام کرنا - چلنا - دوڑنا -
 - إِلَيْهِ - قصد کرنا - فِي حَاجَةٍ
 الرَّجُلُ - کسی کی حاجت پورا کرنے
 کی راہ نکالنا - کسی کام کا بندوبست کرنا -
 اہتمام کرنا - لِعِيَالِهِ - عیال کے لیے
 کرنا - (سَعَايَةً) الْمُتَصَدِّقُ
 صدقات وصول کرنا - سَعَايَةً و
 سَعِيًّا) يَفْلَدَانِ عِنْدَ الْأَمِيرِ -
 چٹلی کھانا - بدگوئی کرنا - نَسَعَتِ
 الْأَمَةُ - لوندی کا زنا کرنا -
 سَاعِي - ۱ - ۲ - کوشش میں کمی پر غالب آنا -
 أَسْعَى إِسْعَاءً - الرَّجُلُ - کوشش کرنا -
 لِسَعْوَائِهِ - تلاش کرنا -
 إِسْتَسْعَى إِسْتِسْعَاءً - الرَّجُلُ - کسی
 کو صدقات جمع کرنے پر لگانا -
 الْعَبْدُ - آزادی حاصل کرنے کے
 لیے کام کرنا -
 السَّعَايَةُ - مہم - چغل خوری -
 السَّاعِي - فَا - محصل - خراج و صدقات
 وصول کرنے والا - ج - سَعَاةٌ
 ڈاکیا -
 الْمَسْعَى - کوشش - مسلک - تصرف -
 ج - مَسَاعٍ -
 سَعَبَ (د) وَ سَعِبَ (د) سَعْبًا و
 سَعُوبًا وَ سَعْبًا وَ سَعَابَةً و
 مَسْعَبَةً - بھوکا ہونا - صفت -
 سَاعِبٌ وَ سَعِبٌ وَ سَعْبَانٌ

مُؤَنَّثٌ (سَعْبِيٌّ) - ج - سَعَابٌ -
 أَسْعَبَ - الْقَوْمُ - قوم کا قحط سالی میں
 مبتلا ہونا -
 السَّعَابُ - بھوک - الْمُسْعَبُ - جائز -
 سَعْدٌ سَعْدًا - سوچنا - وَصَالٌ
 (سَاعِدَةٌ وَ مَسْعِدَةٌ وَ مَسَاعِدَةٌ)
 اونٹ کے دودھ سے سیراب اور
 موٹے بچے -
 السَّعْدُ - مص - ہلکی بارش -
 سَفَسَعٌ - الْوَتْدُ - سیح کو اپنی جگہ
 سے ہلانا - ۱ - فِي التُّرَابِ - مٹی
 میں دھنسانا - رَأْسُهُ بِالْذَّهْنِ -
 سر کو تیل پلانا - الذَّهْنُ فِي دَاسِهِ -
 سر میں تیل لگانا -
 تَسَفَسَعَ - مِنَ الْأَمْرِ - کسی معاملہ سے
 رہائی پانا - فِي الْأَرْضِ - داخل ہونا -
 سَعَلَ (د) سَعَلًا - لاغر ہو کر جھڑپاں
 بڑھنا - صفت (سَعَلَ)
 تَسَعَّمَهُ - الْمَاءُ - کسی کو گھونٹ گھونٹ
 کر کے پانی پلانا - تَسَعَّمَ الْوَلَدُ -
 بچہ کو اچھی غذا دینا - پرورش کرنا -
 أَسَعَّمَهُ - کسی کو بہت ایدا دینا -
 أَسَعَّمَ وَسَخَّ - اچھی خوراک دیا
 جانا -
 الْمُسَعَّمُ وَالْمُسَخَّمُ - اچھی غذا والا - پرورد
 ناز و نعمت اور فریہ لڑکا -
 سَفَّ (د) سَفِيغًا - الطَّائِرُ وَالسَّحَابُ
 پرندہ یا بادل کا زمین کے قریب ہو کر
 اڑنا یا گزرنے - الْخَوْصُ - کھجور کے
 پتوں سے بننا - الْمَاءُ - بہت پانی
 پی کر بھی سیراب نہ ہونا -
 سَفَّ (د) سَفًا - الدَّوَاءُ وَالسَّوْلِقُ
 وَ نَحْوَهُمَا - دوا یا ستو وغیرہ کو
 سفوف کی شکل میں کھانا - پھینکی بنا کر
 بھانکنا -

أَسَفَتْ إِسْفَافًا - الْخَوْصُ - کھجور کی پتیاں
 سے بننا - الرَّجُلُ - بھگانا - ادا
 باتوں کے پیچھے پڑنا - الْبَعِيرُ - اونٹ
 کو خشک گھاس چرانا - الْفَرَسُ
 اللَّجَامُ - گھوڑے کے لگام لگانا -
 - الطَّائِرُ وَالسَّحَابُ - پرندہ یا بادل
 کا زمین سے قریب ہو کر اڑنا یا گزرنے -
 کہتے ہیں - مَا أَسَفَتْ مِنْهُ شَيْئًا -
 اس نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا -
 أَسَفَتْ النَّظَرَ - تیز نظر سے دیکھنا -
 - الشَّيْءُ - بعض کو بعض سے ملا کر جوڑنا
 - الْأَمْرُ - قریب ہونا - أَسَفَتْ
 وَجْهَهُ - چہرہ کا رنگ پلٹ جانا -
 إِسْتَفَّتْ - الدَّوَاءُ - دوا کو سفوف کی
 شکل میں کھانا -
 الْيَسْفُ وَالسَّفْتُ - ایک قسم کا باریک
 لمبا سانپ -
 السُّفْلَةُ - کھجور کے پتوں کی ٹوکری - مٹی بھر
 چیز - موباف - (وَالسَّفُوفُ) دوا
 وغیرہ کی پھینکی -
 السَّفِيفُ - مص - ابلیس کا نام - زین کا تنگ
 کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چیز -
 السَّفِيفَةُ - کجاوہ باندھنے کا چوڑا پٹا یا
 تنگ - ج - سَفَائِفٌ -
 سَفَتْ (د) سَفَتًا - بہت پانی پی کر بھی
 سیراب نہ ہونا -
 السَّفْتُ - بے برکت کھانا -
 سَفَّتَجَهُ - بھٹی دینا - السَّفْتَجَةُ
 بھٹی - ج - سَفَاتِيْمٌ -
 سَفَحَ (د) سَفَحًا وَ سَفُوحًا - الدَّمُ أَوْ
 الدَّمْعُ غَرْنٌ يَأْتِي سُهْبَانًا - بڑنا -
 (د) سَفَحًا وَ سَفُوحًا وَ سَفَحَانًا -
 الدَّمْعُ - آنسو ہونا - صفت (سَافِحٌ)
 ج - سَوَافِحٌ -
 سَفَحَ - الرَّجُلُ - غیر مفید کام کرنا -



وَسَفَرٌ وَسَفَرٌ
السَّافِرُ - فَا - مسافر - ج - سَفَارٌ و
سَفَارٌ - وجہ - آسَافِرُ -
السَّافِرُ - کاتب - ج - سَفَرَةٌ
السَّافِرَةُ - مؤنث السَّافِرِ ج - سَوَافِرُ
مسافر لوگ - قوم سَافِرَةٌ - سفر کرنے
والی قوم
السَّافِرُ - دو قوموں میں صلح کرانے والا -
ج - سَفَرَاو - ایلی - گرے ہوئے بال
یا پتے - کھیت کا پتلا حصہ -
السَّافِرَةُ - سونے یا چاندی کا ہار - ج -
سَفَارِیُّ
السَّافَرَةُ وَالسَّافَرَةُ - ایلی گری قوموں
کے درمیان اصلاح -
السَّافَرَةُ - جھاڑو سے جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ
السَّافَرَةُ - مسافر لوگ - السَّفَرُ - بہت
کانٹوں کی ایک بھیل -
السَّافِرُ وَالسَّافِرُ - بہت سفر کرنے
والا - مؤنث - سَفَرَةٌ
السَّافِرُ - سفر سے تھکا ہوا - درمائدہ -
السَّافِرَةُ - جھاڑو - ج - مَسَافِرُ -
مَسَافِرُ الْوَجْهِ - چہرہ کے کھلے ہوئے
حصے -
السَّافِرُ - ہی - ج - سَفَارِجُ - واحد
(سَفَرَجَلَةٌ)
السَّافِرُ - دلال - خادم - کام کا منتظم -
ظریف وزیرک - ماہر لوہار - داروغہ -
ج - سَفَاسِرَةٌ و سَفَاسِرُ
السَّافِرَةُ وَالسَّافِرَةُ - باطل استدلال و
قیاس - یا وہ جس کی بنیاد مغالطہ پر ہو -
ج - سَفَسَطَاتُ - نسبت کے لیے
سَفَسَطٌ و سَفَسَطَائِیُّ
السَّافِرَةُ - بدبیات و محسوسات
کو نہ ماننے والا فرقہ -
سَفَسَفٌ - الدقیق - آٹا چھانٹا -

صلح کرنا - سَفَت (سَفِیْتُ) ج -
سَفَرَاو
السَّافِرُ - چہرہ کھولنا - الصُّبْحُ - صبح کا
روشن ہونا - الوجہ - چہرہ کا حسین
ہونا - چمکنا - الحَرْبُ - لڑائی کا سخت
ہونا - تیز ہونا - مُقَدَّمُ رَاسِیہ -
چندیل کے بال جھڑ جانا - آسَفَرُ
الشَّجَرُ - درخت کے پتوں کا گرنا -
جھڑنا -
السَّافِرُ - الرَّجُلُ - کسی کو سفر پر بھیجنا -
الْبَحْرِ - نیکل ڈالنا - النَّاسُ
آگ جلانا - بھڑکانا -
سَافِرٌ - سَفَارًا و مَسَافِرَةً - إلى
بکد گذار - روانہ ہونا - فُلَانٌ
منا - سَافَرْتُ عَنْهُ الْحُثی - بخار کا
جھوڑنا -
تَسَفَّرَ - شروع رات میں آنا یا چرانا -
شَيْئًا مِنْ حَاجَتِهِ - کچھ حاصل کرنا -
الْجِلْدُ - چہرہ کا متاثر ہونا -
الْمَرَاةُ - عورت سے چہرہ کھولنے
کو کہنا -
السَّافِرُ - شَعْرَاةٌ عَنْ رَاسِیہ - سر کے
بال جھڑنا - الْغِیمُ - بادل کا پرگندہ
ہونا - الْإِیْلُ - جانا -
السَّافِرُ - مص - جسم انسانی کا داغ - ج -
سَفَرٌ - رَجُلٌ سَفَرٌ - مسافر آدمی
قَوْمٌ سَفَرٌ - مسافر لوگ -
نَاقَةُ سَفَرٌ - سفر کرنے والی اونٹنی
السَّافِرُ - بڑی کتاب - اجزائے توریت
میں سے ایک جُز - ج - آسَفَارُ -
السَّافِرُ - مسافت کو طے کرنا - غروب
آفتاب کے بعد کا وقت - ج -
آسَفَارُ -
السَّافِرَةُ - مسافر کا کھانا - دسرخوان - ج -
السَّافِرُ وَالسَّافِرَةُ - نیکل - ج - آسَفِرَةٌ

سَافِحًا و تَسَافِحًا زنا کرنا - بدکاری کرنا -
سَفَحٌ - الْجَبَلُ - دامن کوہ - ج -
سَفُوحٌ -
الرَّسَفُحُ - وہ شخص جس کے سر کے اگلے
حصہ کے بال جھڑ گئے ہوں - صاف
چندیا والا -
السَّافِحُ - بہت خون بہانے والا - بڑا
فیاض - خوش بیان - شیریں کلام -
السَّافِحُ - موٹی چادر - بڑا ہوا - جوئے کا
ایک تیر جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا -
السَّافِحُ - مص - زنا - بدکاری -
سَفَدَرُضٍ الذَّكْرُ أَنْثَاةٌ و سَفَدَهَا
(س) سَفَادًا و سَفَدَ عَلَيْهَا و
سَافَدَهَا سَفَادًا و مَسَافَدَةً
جانور کا اپنی مادہ سے جفتی کرنا -
سَفَدَ - اللَّحْمَ - گوشت کو بھوننے کے
لیے سیخ میں پرونا -
آسَفَدَا - جفتی کرنا -
إِسْتَسَفَدَ - البعیر - اونٹ پر پیچھے
سے سوار ہونا -
السَّافِدُ - گوشت بھوننے کی سیخ - ج -
سَفَافِدُ
سَفَرْدَن (سَفُور) سفر کے لیے نکلتا -
- الْمَرَاةُ - عورت کا چہرہ کھولنا -
صفت (سَافِی) - الصُّبْحُ
روشن ہونا - الحَرْبُ - لڑائی
کا ختم ہونا - (سَفَرًا) الْبَيْتُ
گھر میں جھاڑو دینا - الرِّیْحُ الْغَمَامُ
ہوا کا بادل کو اڑانے جانا - الشَّیْءُ
جدا جدا کرنا - پرگندہ کرنا - اَلِکِتَابُ
کتاب لکھنا - البعیر - اونٹ
کے نیکل ڈالنا - کاشت کے دھانسوں کو
چرانا - پتلے حصہ کو چرانا -
سَفَرْدَن (سَفَرًا و سَفَارَةً و
سَفَارَةً - بَيْنَ الْقَوْمِ - لوگوں میں



الْعَمَلِ - کام کو اچھی طرح نہ کر۔
 سَفَسَفَتُ الرِّيحُ - زمین پر سے اڑنا۔
 السَّفْسَافُ - ناکارہ اور ردی چیز۔
 فَلَانٌ سَفْسَافٌ الْكَلَامِ - فلاں فضول گو ہے۔ بے مطلب کلام کرتا ہے۔ حقیقہ چیز۔ مِنْ الدَّاقِيقِ - آٹے کا غبار کی طرح اڑنے والا باریک حصہ۔ مِنَ التُّرَابِ - باریک مٹی۔
 - مِنَ الشَّعْرِ - ردی و ناقص شعر۔
 الْمُسَفْسِفَةُ - غبار اڑانے والی ہوا۔
 سَفَسَقَ - الطَّائِرُ - پرندہ کا بیٹ کرنا۔
 - السَّفْسِيقَةُ - والسَّفْسِيقَةُ - مِنَ السَّيْفِ - تلوار کا جوہر۔
 سَفَاسِقُ - "طَرِيقٌ وَاضِحٌ السَّفَاسِقُ - واضح نشانات کا راستہ۔
 السَّفَاسِقُ - ہر لمبی چیز۔
 سَفَطَانِ سَفَطًا - السَّمَكَةُ - مچھلی کا چھلکا اتارنا۔
 سَفَطَانِ (دَك) سَفَاطَةً - پاک نش اور سنی ہونا۔
 سَفَطًا - الْحَوْضُ - حوض کی درستی کرنا۔ اور اس کو بلند بنانا۔
 تَسَفَطَهُ - تھوڑا تھوڑا اپنا۔
 اسْتَفَطَ - الشَّيْءُ - سب لے لینا۔ سب پی جانا۔
 السَّفُطُ - مچھلی کا چھلکا۔ ٹوکری۔ جامردان۔
 جہ۔ اسْفَاطًا -
 اسْفَاطًا - ٹوکری بنانے والا۔ سَفَاطَةُ الْبَيْتِ - گھر کا سامان۔
 السَّفِيطُ - سنی، پاکیزہ طبیعت۔ سَفِيطُ النَّفْسِ - پاکیزہ نفس سنی۔ کینہ و ناکارہ (وند) درخت سے گری ہوئی سبز کھجور۔
 سَفَعَهُ (ف) سَفَعًا - طمانچہ مارنا۔
 الشَّيْءَ - نشان لگانا۔ بٹا دینا۔

کسی کے پیشانی کے بال کپڑ کر کھینچنا۔
 وَسَفَعَتِ السُّمُومُ وَجْهَهُ - گرم ہوا کا کسی کے چہرہ کو جھلس کر دگرگوں کر دینا۔
 سَفَعَهُ (س) سَفَعًا - سرخی مائل سیاہ ہونا۔
 سَفَعَهُ - ایک دوسرے کو مارنا۔ طمانچہ لگانا۔
 سینہ سے لگانا۔ ہٹانا۔ دھتکارنا۔
 تَسَفَعُ - يَالْتَارُ - آگ تاپنا۔ اسْتَفَعُ الْوَجَلَ - کپڑا پہننا۔
 اسْتَفَعُ - كَوْنُهُ - خوف وغیرہ کی وجہ سے رنگ متغیر ہونا۔
 السَّفْعُ - کپڑا۔ رنگا ہوا کپڑا۔ جہ۔
 سُفُوعٌ - السَّفْعُ وَالسَّفْعَةُ - سرخی مائل سیاہی۔
 السَّفْعُ وَالسَّفْعَةُ - اندرائن کا بیج۔
 سَفْعُ - الشَّمْسُ - آفتاب کے سیاہ داغ۔ سَفْعُ الثَّوْبِ - پیل کے چہرہ پر سیاہ نقطے۔ السَّوَارِفُ - ٹوکی پیش۔ واحد (سَفْعَةٌ) -
 السَّفْعُ - سرخی مائل سیاہ رنگ والا۔
 مَوْنَتُ (سَفْعًا) - جہ۔ سَفْعٌ - شکار۔ جنگلی پیل۔
 مَسْفُوعٌ - الْعَيْنُ - دھنسی ہوئی آنکھ والا۔
 سَفَقَهُ (دَن) سَفَقًا - طمانچہ مارنا۔ دروازہ بند کرنا۔
 اسْفَقَ - الْبَابُ - دروازہ بند کرنا۔
 - الْحَائِكُ الثَّوْبِ - جو لہجے کا کپڑے کو کاڑھا بننا۔
 سَفَقَ (دَك) سَفَاقَةً - الثَّوْبُ - کپڑے کا گف ہونا۔ کاڑھا ہونا۔
 اسْتَفَقَهُ - طمانچہ۔ تھپڑ۔ السَّفِيقُ - گف۔ کاڑھا۔ رَجُلٌ سَفِيقٌ - بے حیا آدمی۔
 السَّفِيقَةُ - سونے وغیرہ کا ورق، لکڑی

کارور جس پر چٹائیاں لپیٹی جاتی ہیں۔
 سَفَكَ (رَض) سَفَكًا - الْمَاءُ أَوِ الدَّمَ - پانی یا خون بٹونا۔ الْكَلَامُ - بہت بولنا۔ سَفَكَهُ - کسی کے سامنے شفقہ پیش کرنا۔
 اسْفَكَ - بٹنا۔ ہٹنا۔ گزنا۔
 السَّفَكَةُ - تھوڑی سی خوراک جو غذا سے پیٹے کھائی جائے۔
 السَّفُوكُ وَالسَّفَاكُ - بہت خون گرلنے والا۔ هُوَ مَسْفُوكٌ أَوْ سَفَاكٌ - بالکل دم۔ وہ بڑا گھوٹا ہے۔
 السَّفِيكُ - گرایا ہوا۔ ہایا ہوا۔ مَسْفُوكٌ - باتونی آدمی۔
 سَفَلَ (دَن) وَسَفَلَ (دَس) وَسَفَلَ (دَك) سَفُولًا وَسَفَالًا - نیچا ہونا۔ پست ہونا۔ حقیر ہونا۔ صفت۔ (سَاخِلٌ) جہ۔
 سَاخِلُونَ وَسَفَلَةٌ - وَسَفَلَ وَسَفَالٌ وَسَفَلَانٌ - سَفَلَ - سَفَلَ (دَك) سَفَلًا وَسَفَلًا - سَفَالًا - فِي عِلْمِهِ أَوْ خُلُقِهِ - علم اور اخلاق میں ادنیٰ ہونا۔ گھٹیا ہونا۔
 (سَفُولًا) - فِي الشَّيْءِ - اوپر سے نیچے اترنا۔
 سَقَلَهُ - نیچے اترنا۔ سَاخِلَةٌ - کینی باتوں میں مقابلہ کرنا۔
 تَسَقَّلَ - رفته رفته نیچے اترنا۔
 اسْتَفَلَ - اُتْرَا - السَّفْلُ وَالسَّفْلُ - نیچائی۔ پستی۔
 السَّفَلَةُ وَالسَّفَالَةُ - سب سے نیچلا حصہ۔ سَفَالَةٌ كُلُّ شَيْءٍ - تہہ۔
 پیندا۔ سَفَلَةُ الْقَوْمِ وَسَفَلَتُهُمْ - قوم میں ادنیٰ درجہ کے لوگ۔
 السَفَالَةُ - کینگی۔
 السَّافِلَةُ - دُبر۔ پوتر۔ نیزے کا نیچلا حصہ۔
 سَاخِلَةُ النَّهْرِ - ندی کا نشیبی رخ۔

الْأَسْفَلُ - بخلا، نیچا، پست۔ ج۔ اَسْفَلُ
کہا جاتا ہے شَمَّ رَدَدْنَا
اَسْفَلُ سَاخِلِيْنَ پھر ہم اس کو
پستی کی حالت والوں سے بھی پست تر
کر دیتے ہیں۔

السَّفْلُ - نیچا۔ الْمَسْفَلَةُ - پست۔
سَفَنَتُ (ر)، وَسَفَنَتُ (ر) سَفْنًا
- الرِّيحُ ہوا کا سطح زمین پر چلنا۔
سَفَنَ (ر) سَفْنًا - الشَّيْءُ چھیلنا۔
سَفَنَةُ - تراشنا اور نرم کرنا۔
السَّفْنُ - کھدوی کھال جس کو تلواروں کے
قبضوں پر لگاتے ہیں۔ چوب تراشی
کا آلہ۔

السَّافِنَةُ وَالسَّفُونُ - مین الرِّیاءِ
سطح زمین پر چلنے والی ہوا۔ ج۔
سَوَايْنُ۔

السَّفِينُ - لکڑی پھاڑنے کی کیل یا پھانا۔
السَّقِينَةُ - جہاز کشتی۔ ج۔ سَقْنُ و
سَقِينُ وَسَقَانُ - السَّقَانُ
جہاز بنانے والا۔ والسَّقَانَةُ -
جہاز سازی۔ سَقَانُ الْبَرِّ -
اونٹ۔ السَّقَانَةُ - موتی۔
المُسْقِنُ - چوب تراشی کا اوزار۔
سَقْنَجَر - جلدی کرنا۔ لِقْلَانِ النَّقْدِ
نقدی جلدی دینا۔

السَّقْنَجَرُ وَالسَّقْنَجَرُ وَالسَّقْنَجَرُ -
اسپنج۔ مُرْدَه بادل۔
السَّقْنَجَرُ - لبا۔ جلدی کرنے والا۔ مَوْنُثُ
سَقْنَجَرَةٍ۔

الْإِسْفَنْطُ - خوشبودار رس۔ خصوصاً
انگور کا۔

سَفَنَ (ر) سَفْنًا - الرَّجُلُ بے وقوفی
میں دوسرے سے سبقت لے جانا۔
بے وقوفی پر آمادہ کرنا۔ بے وقوف
کہنا۔ نَفْسُهُ اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔

سَفَنَ نَصِيْبَهُ - اپنا حصہ بھولنا۔
سَفَنَ (ر) سَفْنًا - بے وقوف ہونا۔
بری عادت والا ہونا۔ صفت۔
رَسْفِيْنَةُ - ج۔ سَفَاةٌ وَسَفْهَاءُ
مَوْنُثُ (رَسْفِيْنَةُ) - ج۔ سَفَاةٌ
وَسَفْهَاءُ وَسَفَايَةُ وَسَفِيْهَاتُ -
سَفَنَ الشَّرَابِ - شراب بہت
پینا۔ نَصِيْبَهُ - اپنا حصہ بھولنا۔
سَفَنَ (ر) سَفْنًا وَسَفْهَاءُ -
سَفْهَاءُ - جہل ہونا۔ بے وقوف ہونا۔ سَفَنَ
الرَّجُلُ - بیوقوف بنانا۔ بے وقوف
کہنا۔ ج۔

سَاخَفَهُ - گالی گلوچ کرنا۔ الدَّنْ
شکے کے پاس بیٹھ کر بار بار پینا۔
الشَّرَابِ - بے اندازہ بہت زیادہ
پینا۔

أَسْفَهُ - اللَّهُ فَلَانَا الْمَاءَ - بہت
پلانا اور سیر نہ ہونے دینا۔

لَسَفَهُ - الرَّجُلُ - بتکلف بے وقوف
بننا۔ الرِّيحُ - ہوا کا مضطرب
ہونا۔ الرِّيحُ الْعَصَوْنَ - ہوا کا
درخت کی شاخ کو جھکانا۔ فَلَانَا
عَنْ مَالِهِ - کسی کا مال ٹھگ لینا۔

تَسَاَفَةً - عَلَيْنَا -
السَّفَهُ - مص۔ جہالت۔ بردباری سے
محرومی۔ بد اخلاقی۔

السَّافَهُ - بے وقوف۔ بہت پیاسا۔
وَادٍ مُسْفَهُ - بھری ہوئی وادی۔
المُسْفَهُة - بے وقوف۔ بہت پیاس
لگانے والی خوراک۔

سَفَايَسْفُو سَفُوًا - تیز چلنا یا اڑنا۔
سَفِي (ر) سَفَا و سَفَاءُ - پیشانی پر
کم بال ہونا۔ الرَّجُلُ - بے
وقوف ہونا۔

أَسْفَتُ (رَسْفِيْنَةُ) سَفِيْتُ - يَدُهُ -

ہاتھ پھٹنا۔

أَسْفِي بے وقوف ہونا۔ فَلَانَا طيش
پر آمادہ کرنا۔ بے کسی کے ساتھ
بدسلوکی کرنا۔ برائی کرنا۔ أَسْفَتِ
النَّاقَةُ - اونٹنی کا لاغر ہونا۔
أَسْفِي - الرِّيحُ - غلہ کی بالیوں کے
خاروں کا سخت ہونا۔ الرِّيحُ - ہوا
کا چلنا۔

سَافِي - الرَّجُلُ - گالی دینا۔ علاج کرنا۔
بے وقوفی کا برتاؤ کرنا۔
السَّفَا - پیشانی کے بالوں کی کمی۔ خاک۔
دُبلاپن۔ کانٹے دار درخت۔ واحد۔
(سَفَاةٌ)

السَّفَاءُ - دوا۔ فَوَسَّ أَسْفِي - پیشانی
پر کم بال رکھنے والا گھوڑا۔ تیز رفتار۔
مَوْنُثُ - سَفَوَاءُ - رِيْحُ سَفَوَاءُ -
تیز رفتار ہوا۔

سَفِي كَيْسَفِي سَفِيًّا - الشَّرَابُ -
خاک اڑنا یا کبھڑنا۔


السَّافِيَاءُ - غبار۔ السَّفِي - جس کو ہوا اڑا۔
السَّفِي - پر آگندہ غبار۔ الأَسْفِي مِنَ
الْخَيْلِ - پیشانی پر کم بال والا گھوڑا۔
مَوْنُثُ - سَفِيَاءُ - ج۔ سَفِي -

المُسْفِي - چغل خور۔
سَقْبَتُ (ر) سَقْبًا وَسُقُوبًا -
الدَّارُ - نزدیک ہونا۔

اسقبت - الدَّارُ - قریب کرنا۔
اسقبت الناقَةَ - اونٹنی کا زینچہ
جنا۔

تَسَاَقَبَتِ - البُيُوتُ - گھروں کا پاس
پاس ہونا۔

السَّقْبُ - ج۔ أَسْقُبُ و سَقَابُ و
سُقُوبُ و سَقْبَانُ - اونٹنی کا وہ
بچہ جس کو ابھی جنا ہو۔ فوزائیدہ بچہ۔
ج۔ سَقْبَانُ وَالسَّقْبِيْنَةُ - خیمہ کا



ڈنڈا۔ سرسبز، موٹی اور لمبی شاخ۔
 السَّاقِبُ - خا۔ نزدیک۔ دور۔ (ضد)
 الْمُسْقَبُ وَالْمُسْقَابُ - نوزائیدہ بچہ کی ماں۔
 وہ مادہ جو عادتاً نریجے جئے۔
 سَقَدَ (ض) سَقْدًا وَسَقْدًا وَاسْقَدَ -
 الفرس۔ دُبا کرنا۔
 السَّقْدَةُ - جر۔ سَقْدًا السَّقْدَةُ ج۔
 سَقِيدَتٌ - سرخ پروں والا ایک
 چھوٹا پرندہ۔
 سَقَرْتُهُ دُنِ سَقَرًا - الشمس - سورج کا
 کسی کو جلانا۔
 اسْقَرَتِ - النخلة - کھجور کے درخت سے
 شیرہ پینا۔
 السَّقَرُ - مصی - عکرا۔
 سَقَرٌ - دوزخ (غیر منفرد ہے)
 السَّقَرَةُ - سورج کی سخت گرمی۔ تپش۔
 جر۔ سَقَرَاتٌ -
 السَّاقُورُ - گرمی۔ جانور کو داغنے کا لوبہ۔
 السَّقَارُ - غیر مستحق پر بہت لخت بھیجنے
 والا۔ کافر۔ جر۔ سَقَارَةٌ -
 سَقْسَنٌ - الطائر - پرندہ کا بیٹ کرنا۔
 سَقَطَ دُنِ سُقُوطًا وَمَسْقَطًا - زمین پر
 گرنا۔ کہتے ہیں "سَقَطَ مِنْ عَيْنِي"
 میری نظر سے گر گیا، یعنی میری نگاہ میں
 حقیر ہو گیا۔ سَقَطَ فِي الْكَلَامِ
 غلطی کرنا۔ النَجْمُ - ستارہ کا
 غروب ہونا۔ الحَرُّ - گرمی پڑنا یا
 دور ہونا۔ عَلَى ضَالَّتِهِ - موقع
 بازیافت سے قطع ہونا۔ الْقَوْمُ إِلَى
 قَوْمٍ كَاتِرًا - الْوَلَدُ مِنْ بَطْنٍ
 اُمِّهِ - بچہ کا ماں کے پیٹ سے نکلنا۔
 سَقَطَ فِي يَدِهِ - نادام ہونا۔ عَلَى
 الْخَبِيرِ سَقَطَتْ - تم واقف کار
 کے پاس پہنچے۔
 سَقَطُوا اسْقَطًا - فی يَدِهِ - لغزش

کرنا۔ خطا کرنا۔ نادام۔ حیران ہونا۔
 سَقَطَ سَقَاطًا وَمَسْقَاطًا - گرنا یا
 مسل گرنا۔ الْحَدِيثُ - باری باری
 سے بات کرنا۔ الْفَرَسُ الْخَيْلُ
 گھوڑے کا اور گھوڑوں سے سبقت کرنا۔
 - الْفَرَسُ الْعَدُوُّ - گھوڑے کی سست
 دوڑ۔
 اسْقَطَهُ - گرنا۔ اسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ
 السَّقَطَ - عورت کا ادھورا بچہ گرنا۔
 لَهُ بِالْكَلامِ - گال دینا۔ الرَّجُلُ
 کسی کے ساتھ ایسا کچھ کرنا جس سے
 وہ حقیر ہو جائے۔ مَا اسْقَطَ رَفِي
 کَلِمَةٍ - اس نے کسی کلمہ میں غلطی
 نہیں کی۔
 تَسَقَّطَ - کسی کی خطاؤں کی تلاش کرنا۔
 الْخَبِيرُ - تھوڑی تھوڑی حاصل کرنا۔
 تَسَاقَطَ وَاسْقَاطٌ - بے در پے کرنا۔
 السَّقَطُ - شبنم یا برف۔ ثَمَرٌ وَالسَّقَطُ
 وَالسَّقَطُ - نا تمام بچہ جو اپنی میعاد
 سے پہلے گر جائے۔ خیمہ کا گوشہ، پرندہ
 کا بازو۔ اس بادل کا کنارہ جو سطح زمین
 سے لگا ہوا دکھائی دے۔
 السَّقَطَةُ زور سے گرنا۔ لغزش۔
 السَّقَطُ - ہرنا کارہ و بے خبر چیز۔ روی
 سامان۔ فضیلت و شرمندگی۔ لکھنے
 بولنے یا حساب میں غلطی۔ جر۔ اسْقَاطٌ -
 السَّاقِطُ - کمینہ۔ جر۔ سَقَّاطٌ وَسَقَطٌ -
 مؤنث۔ سَاقِطَةٌ -
 السَّاقِطَةُ - کمینہ۔ ناقص العقل - بکنے
 سے پہلے گر جانے والا پھل۔ جر۔
 سَوَاقِطٌ -
 السَّقَاطُ - مہ۔ سَاقِطٌ کی جمع۔ لغزش۔
 بکنے سے پہلے گر جانے والا پھل۔ پرندہ
 کا بازو۔
 السَّقَاطُ وَالسَّقَاطَةُ - گری ہوئی چیز۔

- السَّقُوطُ - گرا ہوا۔
 السَّقِيطُ - احمق، ناقص العقل۔ مؤنث
 سَقِيطَةٌ - برف، شبنم وغیرہ۔
 السَّقَاطُ - بہت گرنے والا۔ بہت تیز تلوار
 (و۔ السَّقِطِيُّ) روی سامان نیچے والا۔
 کباڑی۔
 السَّقَاطَةُ - السَّقَاطُ کا مؤنث۔
 الْمَسْقُطُ وَالْمَسْقُطُ - گرنے کی جگہ۔ جر۔
 مَسَاقِطُ - مَسْقُطُ رَاسِ الرَّجُلِ -
 انسان کی پیدائش گاہ۔ الْمَسْقُطَةُ
 گرنے کا سبب۔ مَسْقُطَةُ الْأَحْبَالِ
 بڑی مصیبت۔
 الْأُمُّ الْمِسْقَاطُ - قبل از وقت بچہ گرانے
 کی عادت رکھنے والی ماں۔
 سَقَعَهُ (ض) سَقَعًا - کسی کے تھپڑ مارنا۔
 کسی کو سخت سست کرنا۔ برائی سے
 پیش آنا۔
 سَقَعٌ - الدَّيْلُ - مرغ کا بانگ دینا۔ مَا
 أَذْرِي أَيْنَ سَقَعٌ - مجھے نہیں معلوم
 وہ کہاں گیا۔
 اسْتَقْعَ - كَوْنُهُ - رنگ کا متغیر ہونا۔
 السَّقْعُ - گھر زمین کا گوشہ۔ جر۔ اسْقَاعٌ -
 السَّقَاعُ - وہ کپڑے کا ٹکڑا جو اوڑھنی کو تیل
 سے بچائے۔ برقع۔ وہ چیز جس سے
 اونٹنی کی ناک باندھی جائے۔
 الاسْقَعُ - سبز پر اور سفید سر کا چڑیا کے
 مانند ایک پرندہ جو پانی کے قریب ملتا
 ہے۔ جر۔ اسْقَاعُ - دشمنوں اور
 حاسدوں سے دور رہنے والا۔
 سَقَفَ دُنِ سَقْفًا وَسَقْفًا -
 الْبَيْتِ - گھر پر چھت ڈالنا۔
 سَقَفَ دُنِ سَقْفِي وَسَقْفِ وَ
 سَقَفَ - لُشپ ہونا۔
 اسْقَفَهُ وَسَقَفَهُ - عَلَيْهِمَا
 لُشپ بنانا۔

سَقِفَتْ دَس، سَقْفًا کبڑ اور لمبا ہونا۔
 صَفَتْ (أَسَقَفْتُ) مَوْنَتْ - سَقْفَاءُ
 جہ - سَقْفُ -
 السَّقْفُ - مِنَ الْبَيْتِ - گھر کی چھت۔
 جہ - سَقُوفٌ -
 السَّقِيفَةُ - چھت۔ جہ - سَقْفٌ وَ سَقْفٌ -
 السَّقِيفَةُ - چھت پائنے کا تختہ یا پتھر۔
 سونے یا چاندی کے پتلے پتلے پترے۔
 اونٹ کی پسلی۔ جہ - سَقَائِفٌ -
 هَدَمَ السَّفَرُ سَقَائِفَ الْبَعِيرِ - سفر
 نے اونٹ کی پسلیاں توڑ ڈالیں۔
 الرِّسْقُ - موٹی اور لمبی بڑیوں والا۔
 مِنَ الْجَمَالِ - وہ اونٹ جس پر بال
 نہ ہوں - مِنَ الظُّمَانِ - ٹیڑھی گردن
 کا شتر مرغ۔
 الرِّسْقُ - بشپ - مطران - جہ -
 أَسَاقِفَةٌ وَ أَسَافَةٌ -
 الرِّسْقِيَّةُ - بشپ کا عمدہ، بشپ کی
 رعیت کی طرف منسوب۔
 الرِّسْقُ - مفع - لمبا۔
 سَقْلُهُ (دَس) سَقْلًا - صِیْقْلُ کرنا۔
 سَقْلُ دَس، سَقْلًا - الْبَعِيرُ - اونٹ کے
 کھڑیں سیدھی جانب کچی ہونا۔
 السَّقْلُ - کر - السَّقْلُ مِنَ الرِّجَالِ
 پتلی کمر والا - مِنَ الْخَيْلِ -
 گھوڑے کی پیٹھ پر گوشت کم ہونا۔
 السَّقْلُ وَالسَّقْلُ وَالْأَسْقَالُ وَ
 السَّقْلُ - جنکلی پیاز۔
 الرِّسْقَالَةُ - اونچی جگہ پر پہنچنے کے
 لیے پاڑھ۔ جہ - أَسَاقِيلُ -
 سَقْلُهُ - بچھاڑنا۔
 السَّقْلُ - علاقہ خرز کے رہنے والے
 لوگوں کی ایک جماعت جو یورپ کے
 ملکوں میں جا کر آباد ہو گئی۔ واحد
 (سَقْلِيٌّ) جہ - سَقْلِيَّةٌ -

سَقَمَ دَس، وَ سَقَمَ (دَس) سَقَمًا وَ
 سَقَمًا وَ سَقَمًا وَ سَقَمًا -
 بیمار ہونا یا بیماری کا دراز ہونا۔ صفت
 (سَقِيمٌ) جہ - سَقَامٌ وَ سَقَمَاءُ -
 أَسَقَمَ وَ سَقَمَ - بیمار ڈالنا - وَ
 أَسَقَمَ الرَّجُلُ - بیمار گھر والا
 ہونا۔ السَّقَمُ وَ السَقَمُ - جہ -
 أَسَقَامٌ - وَ (السَّقَامُ) بیماری۔
 السَّقَمُ وَ السَّقِيمُ - بیمار - كَلَامٌ
 سَقِيمٌ - غیر درست کلام۔
 مَكَانٌ سَقِيمٌ - خوفناک جگہ۔
 هُوَ سَقِيمُ الصَّدْرِ عَلَى أَحْيَاءٍ
 وہ اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔
 الرِّسْقَامُ - بہت بیمار رہنے والا۔ دالم
 المرین - جنم روگی - اَرْضٌ مَسْقَمَةٌ
 بیماریوں والی زمین۔
 السَّقْمُورُ - ماہی ریگ - ریت کی مچھلی۔
 سَقَى (دَس) سَقِيًا - الرَّجُلُ - پانی پلانا۔
 کسی سے سَقَاكَ اللَّهُ يَأْسَقِيًا -
 کہنا۔ کسی پر عیب لگانا۔ کسی کی غیبت
 کرنا۔ الثَّوْبُ كَثُرَ لَكَ سَقَاةٌ
 اللہ العزیز - خدا تعالیٰ اس کے
 لیے بارش بھیجے - بَطْنُهُ بیماری کی
 وجہ سے پیٹ میں پانی جمع ہونا۔
 سَقَى - قَلْبُهُ عَدَاوَةً - دل کا دشمنی
 سے بھر جانا۔ بَطْنُهُ پیٹ میں بیماری
 کا پانی جمع ہونا۔
 سَقَى تَسْقِيَةً - الرَّجُلُ - بہت پلانا۔
 سَقِيًا لَكَ کہنا - الثَّوْبُ
 کپڑے کو بار بار رنگ میں ڈبونا۔
 أَسَقَى إِسْقَاءً - پانی پینے کے لیے دینا
 پانی کی طرف رہنمائی کرنا۔ مولشی کو پانی
 پلانا، یا زمین کو سیراب کرنا کسی سے
 سَقَاكَ اللَّهُ يَأْسَقِيًا لَكَ کہنا۔
 سَقَاةٌ تَسْقِيًا - ایک دوسرے کو

پلانا۔ سَقَاةٌ فِي أَرْضِيہِ کسی کو زمین
 کی دیکھ بھال کے لیے رکھنا۔ اس شرط پر
 کہ اس کو کچھ غلہ دیا جائے گا۔
 تَسْقَى تَسْقِيًا - سیراب ہونا۔ تر ہونا۔
 تَسْقَى الصَّبْغُ - رنگ لی جانا۔
 لَسْتَقَى إِسْقَاءً وَ لَسْتَقَى
 إِسْقَاءً - منہ - پانی مانگنا۔
 لَسْتَقَى مِنَ النَّهْرِ - نہر سے پانی
 لینا۔ وَ لَسْتَقَى الرَّجُلُ - کسی
 کے جسم یا پیٹ میں بیماری کا پانی جمع ہونا
 قے کرنا۔ لَسْتَقَى الرَّجُلُ - کسی
 سے سَقَاكَ اللَّهُ يَأْسَقِيًا لَكَ کہنا۔
 السَّقَى وَ السَّقَى - پیٹ میں بیماری کا پانی۔
 - السَّقَى - سیراب کی ہوئی فصل یا
 زمین۔ پانی کا حصہ۔ بادل - جہ -
 أَسْقِيَةٌ -
 سَقَبًا وَ سَقِيًا - يَفْلُونَ - دعا کے موقع پر
 کہتے ہیں۔ دراصل سَقَاةٌ اللَّهُ سَقِيًا
 تھا۔ یعنی اللہ اس کو سیراب کرے۔
 السَّقَاءُ - مشک - جہ - أَسْقِيَةٌ وَ أَسْقِيَاتُ
 وَ أَسَاقٍ -
 السَّقَايَةُ وَ السَّقَايَةُ - پانی پلانے کی جگہ
 پانی پینے کا برتن (دَس) وَ السَّقَايَةُ،
 پانی جمع کرنے کا حوض یا ٹنکی۔
 السَّقَاقِي - فَا - جہ - سَقَاةٌ وَ سَقَاوَنَ
 وَ سَقَاءُ وَ سَقَى -
 السَّقَايَةُ - مَوْنَتْ السَّقَايَةُ - چھوٹی نہر۔
 جہ - سَوَاقٍ وَ سَقَايَاتُ -
 السَّقَى - دریاؤں کے پانی سے سیراب
 کیا ہوا۔ بہت بارش برسنے والا بادل۔
 درخت خرما - ہردی کا پودہ واحد
 (سَقِيَّةٌ)
 السَّقَاءُ سَاقٍ کا مبالغہ۔ مَوْنَتْ -
 سَقَاةٌ وَ سَقَايَةُ -
 الرِّسْقَاءُ - بَرُوئے نعت پانی طلب



کرنا۔ اور باصطلاح شرع پانی طلب کرنے کے لیے نماز استسقاء ادا کرنا۔ اور دعا کرنا۔ اطباء کے نزدیک ایک بیماری کا نام ہے۔
 الْمُسْقَى۔ سیرانی کا وقت۔
 الْمُسْقَوِيّ۔ دریا کے پانی سے سیراب کی ہوئی کھیتی (پہریت کی کھیتی)۔ و الْمُسْقَاةُ۔ بارانی کھیتی۔ الْمُسْقَاةُ وَالْمُسْقَاةُ۔ پانی پلانے کی جگہ۔
 سَلَكَ (دَن) سَكًا۔ الباب۔ دروازہ بند کرنا دروازہ میں لوبہ کی بلی لگانا۔
 السَّكْرُ۔ کنواں کھودنا۔ اُكْتُبْ۔ کانوں کو جڑ سے اکھیڑنا۔ النِّعَامُ مَا فِي بَطْنِهِ۔ شتر مرغ کا پتلی بیٹ کرنا۔ کہتے ہیں "مَا سَلَكَ تَمَّعِي" مِثْلَ ذَلِكَ الْكَلَامِ؟ اس جیسا کلام میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا۔ اِیْن تَسَلَّ؟ کہاں جاتے ہو۔
 سَلَكَ (دَن) سَكًا۔ چھوٹے کانوں والا ہونا۔ صفت (اَسَلَكَ) مؤنث سَكًا۔ ج۔ سَلَكَ۔
 اِسْتَسَقَى اسْتِسْقَاگَا۔ التَّبَاتُ۔ پورے کا گنجان ہونا۔ اَسَلَكَ الْمَسَامِعُ ہرا ہونا۔ البَيْتُ۔ بند بھری والا ہونا "مَا اَسَلَكَ فِي مَسَامِعِي مِثْلَهُ" یعنی میرے کانوں میں اس جیسی بات نہیں پڑی۔
 السَّلَكُ وَالسَّلَكُ۔ ج۔ سَكَاكُ وَسُكُوکُ تنگ کنواں تنگ کڑیوں والی زرہ۔ بند ٹوک۔ السَّلَكُ۔ کیل سیدھی عمارت طبیعت کی کمینگی، بچھو کا سوراخ، کڑی ایک قسم کی خوشبو "صُرُوبًا بِيَوْهَهُ" سِکَاگَا انھوں نے اپنے مکانات ایک قطار میں بنائے۔
 السَّكَكُ۔ ص۔ ہراپن۔

السَّكَاةُ۔ تنگ حلقوں والی زرہ۔
 السَّكَّةُ۔ سیدھا راستہ، بل کی پھاں۔ درختوں کی قطار۔ سکہ ڈھالنے کا سانچہ یا مشین، پوسٹ آفس، جہ سِکَکُ اَصْحَابُ السَّكَكِ۔ اہم امور کے لیے بھیجے جانے والے ولیفہ خور پیغام رساں۔
 السَّكِيّ۔ دینار۔ قاصد۔ السَّكِيّ۔ کیل۔ السَّكَاكُ۔ کرہ ہوائی تیر میں پر کی جگہ۔ السُّكُوكُ۔ تنگ منہ کا کنواں۔ السَّكَاكَةُ۔ کرہ ہوائی خود رائے، آپ خود۔ چھوٹے کانوں والا۔
 السَّكَاكُ۔ سکے ڈھالنے والا۔ السَّكَاكَةُ۔ مسافر لوگ۔
 سَكَبَ (دَن) سَكَبًا وَسَكَابًا۔ الماءُ نَحْوَهُ۔ پانی وغیرہ گرانا۔ بٹونا۔
 سَكَبَ (دَن) سَكُوبًا وَاسْتَسَكَبَ۔ الماءُ پانی کا گرنا۔ ہنا۔ بٹنا۔
 تَسَاكَبَ۔ الدَّمْعُ۔ آنسو ہنا۔
 السَّكَبُ۔ مع۔ لگاتار بارش۔
 مِنَ الْخَيْلِ۔ تیز رفتار گھوڑا۔
 اَمْرٌ سَكَبٌ۔ لازم ہونے والا کام۔
 رَجُلٌ سَكَبٌ۔ چپٹ چالاک آدمی۔
 (د) السَّكَبُ۔ تانبا یا سیسہ۔ ایک خوشبودار درخت۔ واحد (سَكَبَةٌ) سر کی بھوسی۔
 السَّاكِبُ وَالسَّكِيْبُ وَالْاُسْكُوبُ۔ بننے والا۔
 الْاُسْكُوبُ۔ لگاتار بھڑی۔ موجی، دوبار۔ درخت خرما کی قطار۔ مِنَ الْبَرْقِ زمین کی طرف کوندنے والی بجلی۔
 الْاِسْكَابُ۔ موجی۔
 الْاِسْكُوبَةُ وَالْاِسْكَابَةُ۔ مشک کے شگاف میں دینے کی کڑی۔
 الْمَسْكَبَةُ۔ نہانے یا بننے کی جگہ۔

السَّكِيَانُ۔ گوشت اور سرکہ سے تیار کردہ سالن۔
 سَكَّتَ (دَن) سَكَنًا وَسُكُونًا وَسَكَاةً وَسَاكُوتَةً۔ خاموش ہونا۔ مریانا۔
 الْغَضَبُ۔ غصہ بھٹنا ہونا۔ الْحَرُّ گرمی کا تیز ہونا اور ہوا کا کرنا۔
 الْحَرَكَةُ۔ حرکت کا ٹھہرنا۔
 سُكَّتَ۔ سکتہ لاحق ہونا۔ صفت (مُسْكُوتٌ) اُسْكَّتَ۔ کلام کا بند ہونا۔ حِينَ الشَّيْءِ۔ اعراض کرنا۔
 اُسْكَّتَهُ وَسَكَّتَهُ۔ چپ و خاموش کرنا۔ سَاكَّتَهُ۔ خاموش رہنے میں مقابلہ کرنا۔
 السَّكَنَةُ۔ ایک مشہور بیماری کا نام۔
 السَّكَنَةُ۔ برتن کا بچا ہوا۔ بچہ وغیرہ کو چپ کرانے کی لوری۔
 السَّكَاتُ۔ بولنے سے روکنے والی بیماری۔ بے خبری میں دُرس لینے والا سانپ۔ هُوَ عَلَى سَكَاتِ الْأَمْرِ وہ کام ختم کرنے کے نزدیک آگیا ہے (وَالسَّكَاةُ) مِنَ الْجَوَابِ۔ سکت جواب۔ کہتے ہیں رَحَاهُ بِسَكَاتِهِ وَصَمَاتِهِ اس نے اس کو خاموش کر دیا۔
 السَّكِيَّةُ۔ کم گو۔ السَّكْتُ وَالسَّكُوتُ وَالسَّاكُوتُ وَالسَّاكُوتَةُ وَالسَّكِيَّةُ وَالسَّكِيَّةُ وَالسَّكِيَّةُ۔ گھوڑ دوڑ کا آخری گھوڑا۔
 اَسْكَاتُ۔ القوم۔ قوم کے اوباش لوگ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کے باقی ماندہ حصے۔
 الْمُسْكَّتُ۔ جوئے کے کھیل کا آخری تیر۔
 سَكَرَدَن سَكْرًا۔ الاناء۔ برتن بھرا۔
 الْهَمْرُ۔ دریا کے لیے بند بنانا۔
 الْبَابُ۔ دروازہ بند کرنا۔ (سَكُورًا) وَسَكُورًا۔ الیوجہ۔ ہوا کا ٹھہرنا۔
 الْحَرُّ۔ گرمی کا کم ہونا۔ سَكُرَ وَسَكُرًا بَصْرُهُ۔ نگاہ دھندلی ہونا۔

سُكُوْدَسْ، سُكْرًا - الحَوْضُ. حوض کا بھرنّا
 - الرجلُ عليه کسی کا کسی پر
 غضبناک ہونا سُكْرًا و سُكْرًا د
 سُكْرًا و سُكْرًا و سُكْرًا - من
 الشَّرَابِ - شراب سے مدہوش ہونا
 صفت سُكْرًا و سُكْرًا - صفت مُوْنِثْ
 (سُكْرًا و سُكْرًا و سُكْرًا) - ج
 سُكْرًا و سُكْرًا و سُكْرًا -
 سُكْرًا - گلا گھونٹنا - الباب - دروازہ
 بند کرنا
 اُسُكْرًا - الشَّرَابِ - مست کرنا مدہوش
 کرنا
 تَسَاكُرٌ - مستی ظاہر کرنا - بناوٹی متوالا ہونا
 نشہ آور چیز استعمال کرنا
 اَلسُّكْرُ - شراب اور ہر نشہ آور چیز مرکہ
 اَلسُّكْرُ - دریا کا بند، پشتہ - ج - سُكُوْرٌ
 اَلسُّكُوْرُ - مص - مستی، نشہ
 سُكُوْرٌ - المَوْتِ أَوِ الْهَيْجَةِ مَوْتِ یا غم کی
 سختی - ج - سُكُوَاتٌ
 اَلسُّكُوَاتُ شکر (سُكُوَاتٌ) اس سے خاص ہے
 اَلسَّاكُوْرُ - فَا - کِلْ سَاكُوْرٌ - وہ رات جس
 میں ہوا ٹھہری ہوئی ہو مُوْنِثْ
 اَلسَّكَاْرُ - نشہ آور چیزوں کا بنانے والا
 یا بیچنے والا
 اَلسُّكُوْرُ و اَلسُّكُوْرُ و اَلسُّكُوْرُ - بہت
 نشہ والا - شراب کا عادی - اَلسُّكُوْرَةُ
 و اَلسُّكُوْرَةُ - تشری - رکابی
 سُسُكْسَکْ - کمزور ہونا - بہادر ہونا -
 تَسُسُكْسَکْ - اَلْیَیْہِ - عاجزی کرنا
 سُسُکَمَ و سُسُکَمَ دَفَسْ - تَسَاکُ و سُسُکَا -
 آوازہ بھرنّا "مَا اَدْرِي اَيْنَ سُسُکَمَ"
 میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا
 تَسُسُکَمَ - فَا اَمْرِهِ اَدُسِيْرُہ - بے راہ
 چلنا - مت تک - اصل میں رہنا
 اَلظُّلْمَةُ - اندھیرے میں بھٹکتے پھرنّا

اَلسَّاكِمُ - فَا - و اَلسَّاكِمُ - مسافر آدمی
 اجنبی - رَجُلٌ سُسُکَمَ - متحیر آدمی
 اَلسُّكَمُ - ایک بوٹی
 اَلْمُسْكَعَةُ - امر جس کی راہ نہ سوجھے -
 اَرْضٌ مُسْكَعَةٌ - بھٹکانے والی
 بے راہ زمین
 سُسُکَفَ دَسْ - سُسُکَفَا - الباب - دروازہ
 کی چوکھٹ بنانا
 تَسُسُکَفَ - الباب - دروازہ کی چوکھٹ
 پر قدم رکھنا
 اَسُسُکَفَ - موچی ہونا
 اَلسَّاكِفُ - فَا - دروازہ کی چوکھٹ کی
 اوپر کی لٹری - جو دہلیز کے مقابل
 ہوتی ہے
 اَلْاُسُكْفُ - مِنَ الْعَيْنِ - ہلکوں کے اگنے
 کی جگہ - آنکھ کا نیچلا ہونا
 اَلْاُسُكْفَةُ و اَلْاُسُكُوفَةُ - چوکھٹ - دہلیز
 اَلْاُسُكْفُ و اَلْاُسُكْفُ و اَلْاُسُكُوفُ
 و اَلْاُسُكُوفُ و اَلْاُسُكُوفُ - موچی - و
 اَلْاُسُكُوفَةُ - موچی کا پیشہ
 سُسُکَمَ دَن - سُسُکَمًا - کمزوری سے قریب
 قریب قدم رکھنا صفت (سُسُکَمُ)
 اَلْاُسُكُوفَةُ - راجب کا کپڑا یا اس کا سر
 پر ڈالنے کا کپڑا
 سُسُکَنَ دَن - سُسُکُونًا - ٹھہر جانا - سکون
 پذیر ہونا - اَلْیَیْہِ - خوش ہونا -
 عِنْدَ الْوَجْہِ - دور دور ہونا - جاتا
 رہنا - اَلْحَوْضُ - حوض کا بلا حرکت
 ہونا - سُسُکَنًا و سُسُکَنِي - الدَّارُ
 دَفِي الدَّارِ رہنا - اقامت کرنا -
 صفت (سُسُکَنُ) - ج - سُسُکَنُ و
 سُسُکُونُ
 سُسُکَنَ دَن - سُسُکُونًا و سُسُکَنَ دَن - سُسُکُونَةُ
 مکین ہونا
 سُسُکَنَ - اَلْمُتَحَرِّکُ - ساکن کرنا ٹھیرانا


- اَلْحَوْضُ - جزم دینا
 سُسُکَنَ - فَا دَارٍ وَاحِدَةً - ایک گھر میں
 سُسُکَنَ ساہتہ رہنا - مل کر رہنا
 اَسُسُکَنَ - اَلْرَجُلُ - مکین ہونا - ۵ -
 کسی کو مکین بنادینا - ۵ الدَّارُ
 گھر میں کسی کی بود و باش کرنا - کسی کو آباد
 کرنا - اَلْفَقْرُ حَلَاثًا - محتاج کی کا
 کسی کو بے حرکت بنانا
 تَسُسُکَنَ و تَسُسُکَنَ - مکین و محتاج ہونا
 تَسَاکُنُوا - فَا الدَّارِ - مل کر رہنا
 اُسُتَنَانِ اُسُتَنَانَةً و اُسُتَنَکَنَ - ذیل
 و عاجز ہونا
 اَلسُّکَنُ - گھروالے - گھر
 اَلسُّکَنُ - آگ، رحمت، برکت - ہر وہ چیز
 جس سے آرام ملے - دل لگے - اَلْاُسُکَنُ
 کا واحد یعنی غذا - خوراک (و اَلسُّکَنُ)
 رہنے والا - رہنے کی جگہ
 اَلسُّکُنَةُ - سر کی جڑ - سر کے قیام کی جگہ
 ج - سُسُکَنَاتٌ کہتے ہیں تَرَکُتْہُمْ
 عَلٰی سُسُکَنَاتِہُمْ - میں نے ان کو اپنی
 حالت پر چھوڑا
 اَلسُّکُنَةُ و قَارِ - ہیبت، اطمینان
 اَلسُّکُنُ - ہلکا ہلکا تیز روگدھا -
 اَلسُّکُنَةُ - گدھی
 اَلسُّکُونُ - بے حرکتی، آرام - جزم -
 اَلسُّکَانُ - مِنَ السَّفِينَةِ - پتوار - ج -
 سُسُکَانَاتٌ
 اَلسُّکُنُ - چھری - ج - سُسُکَاکِنُ - و
 اَلسُّکَانُ - چھری ساز
 اَلْمُسْكِنُ و اَلْمُسْكِنُ - گھر، مکان، منزل
 ج - مَسَاکِنُ
 اَلْمُسْكِنَةُ - محتاج کی، ذلت - کمزوری
 اَلْمُسْكِنُ - کچھ نہ رکھنے والا - حبال کے لیے
 بقدر کفایت نہ رکھنے والا - ذلیل
 مغلوب - ج - مَسْكِيُونُونَ و مَسْكِيُونُ



مَوْنَتٌ وَمُسْكِينٌ وَمُسْكِينَةٌ
سَلَّ (ن) سَلًّا وَاسْتَلَّ - الشَّيْءُ
مِنْ الشَّيْءِ - ایک چیز میں سے دوسری
چیز آہستہ آہستہ نکالنا۔ السَّيْفُ
تَلَوَّارِ سَوْنَتًا اسْتَلَّ قُلَانٌ بَلْدًا
وہ شخص اس چیز کو چپکے سے لے گیا۔
سَلَّ (ض) سَلًّا - گرے ہوئے دانوں
والا ہونا۔ صفت مذکر (سَلَّ)
صفت مؤنث (سَلَّتْ)
سَلَّ - لاغر ہونا۔ سَلَّ کی بیماری میں مبتلا
ہو کر لاغر ہونا۔ صفت (مُسَلَّوْنٌ)
أَسَلَّ اسْلَاقًا - اَللّٰهُ فُلَانًا يَسْلُكِي
بیماری میں مبتلا کرنا۔ الشَّيْءُ - چپکے
سے پرانا۔
تَسَلَّلَ وَاسْتَلَّ - مِنَ الزَّحَامِ - بھیڑ
میں سے چپکے سے کھسک جانا۔
”إِسْلَقْتُ قَبِيضَ الْفَرَسِ مِنْ يَدِي“
اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی رسی
نکل گئی۔
السَّلَّ - مص - عطر فروش کا ڈبہ۔ ج۔
سَلَّانٌ -
السَّلَّ وَالسَّلَّ وَالسَّلَّانُ - لاغری۔
بھیڑے کی بیماری۔ سَلَّ -
السَّلَّةُ - خفیہ چوری۔ سَلَّ کی بیماری، حوض
کا نقص۔ ٹوکری۔ عطر فروش کا ڈبہ۔
ج۔ سَلَّانٌ - خوش سیریع السَّلَّةُ -
تیز دوڑنے والا گھوڑا۔
السَّلِيلُ - کھینچا ہوا سونٹا ہوا۔ ولد۔
”هُوَ سَلِيلُ الْأَكَادِمِ“ وہ بزرگوں
کی اولاد ہے۔ خالص شراب۔ حرام
مغز۔ کوٹان۔ وادی میں پانی بہنے کی جگہ
ج۔ سَلَّانٌ -
السَّلِيلَةُ - بیٹی۔ پیٹھ کے گوشت کا لمبا
ٹکڑا۔ لمبی مچھلی۔
السَّلَالَةُ - کسی شے سے نکالی ہوئی چیز

خلاصہ اولاد
السَّالُّ - وادی میں پانی بہنے کی تنگ
جگہ۔ ج۔ سَلَّانٌ وَسَوَالٌ
السَّلَالُ - ٹوکری بنانے والا۔ چور۔
السَّلَّةُ - بڑی سوئی۔ سَوَالٌ - ج۔ سَلَّةٌ
وَمَسَالٌ -
سَلَّةٌ - فَرْعُونٌ - ایک لمبا مربع ستون
جو مصر کے بادشاہوں کی یادگار ہے۔
سَلَّاءُ (ف) سَلَّاءٌ وَاسْتَلَّاءٌ - السَّحْنُ
گھی صاف کرنا۔ سَلَّاءُ السَّحْنِ
تلوں سے تیل نکالنا۔ سَلَّاءٌ رَجَائِي
سَوَاطِی - اس نے اس کو سوکڑے
مارے۔ سَلَّاءُ الْجَذَعِ - تنہ پر سے
کانٹے پھیلنا۔
السَّلَّاءُ - سَلَّاءُ كَاسِمٍ - تپا کر صاف
کیا ہوا گھی۔ ج۔ أَسَلَّةٌ
السَّلَّاءُ - کھجور کے درخت کا کانٹا۔ واحد
(سَلَّاءَةٌ) - تیر کا پھل جو درخت خما
کے کانٹے کے مانند ہوتا ہے۔ ایک
پرندہ۔
سَلَّ (ن) سَلًّا وَسَلْبًا - الشَّيْءُ -
چیز کو زبردستی پھینکا۔ الْقَصَبَةُ
أَوِ الشَّجَرَةُ - پھیلنا۔ السَّيْفُ
تلوار نکل کرنا۔ صفت (سَالِبٌ)
ج۔ سَلَّانٌ وَسَالِبُونَ - مؤنث
سَالِبَةٌ - ج۔ سَالِبَاتٌ وَسَوَالِبٌ
(وَاسْتَلَبَتْ) تَوْبَةً کسی کے
کپڑے پھینکا۔
سَلَبَ (س) سَلْبًا - ماتمی لباس پہننا۔
أَسَلَبَتْ - الشَّجَرَةُ - درخت کا پھل
یا پتے گرانا۔ (وَسَلَبَتْ) النَّاقَةُ
أَوِ الْمَرْأَةُ - اونٹنی یا عورت کا بچہ
مر جانا یا ادھورا بچہ گرانا۔ صفت
(سَلَبٌ وَسَلُوبٌ) - ج۔ سَلَبٌ وَ
سَلَابٌ وَرَسَالِبٌ وَسَلْبٌ وَ

سَلَبٌ وَمُسْلَبٌ
إِسْلَبَ - تیز چلنا (یہ عام طور سے اونٹنی
کے لیے مخصوص ہے)
السَّلَبُ - مص - تیز رفتاری۔ فَرْسٌ سَلَبٌ
القَوَائِمُ - تیلی ٹانگوں کا گھوڑا۔
السَّلَبُ - پھینچی ہوئی چیز۔ ”أَخَذَ سَلَبَ
الْقَيْتِلِ“ اس نے مقتول کا سامان
لے لیا۔ ج۔ أَسْلَابٌ - لمبا درخت
الزَّيْتُونَةُ - ذبح شدہ جانور کا چمڑا
پائے اور پیٹ۔ مِنَ الْقَصَبِ
نرمل کا پھلکا۔ درخت کا ریشہ یا پھلکا
جس سے رسیاں بٹی جاتی ہیں۔
السَّلَبُ - لمبا۔ ہلکا۔ السَّلْبَةُ - برہنگی
عریانی۔
السَّلَابُ - بہت پھیننے والا۔ درخت سے
رسیوں کے لیے ریشہ نکالنے والا۔
السَّلَابَةُ وَسَلْبُوتٌ - (مذکر مؤنث)
لیٹیر۔ چور۔
السَّلَابُ - ماتمی سیاہ لباس۔ ج۔ سَلَبٌ -
السَّلَبُ - عقل یا مال کھویا ہوا۔ شَجَرَةُ
سَلَبٌ - وہ درخت جس کے پتے
جھاڑ دیے گئے ہوں (اور شاخیں چھانٹ
دی گئی ہوں)۔ ج۔ سَلْبِيٌّ -
الْأُسْلُوبُ - طریقہ۔ راستہ۔ روش۔ ج۔
أَسَالِيْبٌ - الْأُسْلُوبُ - ناک کی
بندی۔ چنانچہ کہتے ہیں: أَنْفُهُ فِي
أُسْلُوبٍ - اس کی ناک دائیں بائیں
نہیں ہوتی یعنی متکبر و مغرور ہے۔
سَلَّتْ (ض) سَلَّتًا - المَتَحَى - آنتوں
کو ہاتھ سے نکالنا۔ الشَّعْرُ أَوِ
الرَّاسُ - بال یا سرمونڈنا۔ الْمَرْأَةُ
الْخِصَابُ عَنْ يَدِهَا عَمْرُوتٌ کا
لپٹنے ہاتھ کی مہندی کو چھڑا ڈالنا۔ مل کر
اتار دینا۔ الشَّيْءُ - کانٹا۔ ڈالنا
کوڑے لگانا۔ رَسْلِيَّةٌ -



تسلخ - جلدہ - کھال کا اتارنا۔
 اسلخ - اسلخا - الرجل - لیٹنا۔
 سلخ - الشهر - (مسلخ) مینہ
 کا آخر۔ سلخ الحید و سلخھا
 و سلخھا - سانپ کی کینچی۔
 السلخ - تیکہ پر چڑھا ہوا دھاگا۔ السلیخ
 کھال کھینچی ہوا۔ شی سلیخ ملیخ۔
 بے مزہ چیز۔

السلاخ - فی الشیء - بے مزہ ہونا۔
 السلیخ - بچہ - بان کا تیل جو ابھی تب نہ
 بنایا گیا ہو۔ من شجر الومت و
 نحوہ - وہ درخت جس پر چارہ کے لیے
 کچھ نہ ہو۔ صرف خشک لکڑی ہو۔
 السالخ - فا - اونٹ کی کھلی سیاہ سانپ کی
 صفت بھی کہ آتا ہے کیونکہ یہ ہر سال
 اپنی کینچی اتارتا ہے۔ سنی کو اسودۃ
 کہتے ہیں۔ اس کی صفت سانیخہ
 نہیں آتی۔ سالیخ کا تشبیہ بھی نہیں
 آتا۔ البتہ جمع میں اساور سالیخہ و
 سوالخ و سلخ و سلخہ کہتے ہیں

الاسلخ - گنجی - سرخ چمڑے والا۔
 السلخ - بہت کھال کھینچنے والا۔
 المسلخ - کھال کھینچنے کی جگہ۔ مذبح۔
 بوچڑخانہ۔

المسلخ - سانپ کی کینچی، کچی چڑھ - المنخل
 وہ کھجور کا درخت جس کی کچی کھجوریں گر جائیں۔
 السور - ایک قسم کی سمندری کھجلی۔

سلیست - سلسا - النخل - درخت
 خروا کی شاخوں کی جڑوں کا گر جانا۔ صفت
 (سلس) اگر ایسا عام طور سے ہوتا
 رہتا ہے تو ایسے درخت کو (سلسا) کہتے
 ہیں۔ الخشبہ لکڑی کا
 بوسیدہ ہونا۔

سلس (س) سلسا و سلسا و سلسا
 آسانی سے مطیع ہونا۔ صفت (سلس)

و اسلخہ - مسلح کرنا
 تسلخ - ہتھیار پہننا، ہتھیار لگانا۔
 السلخ - مص - پتلا پائخانہ۔ ج - سلو
 و سلخان۔
 السلخ - تالابوں میں بارش کا پانی
 السد - ج - سلخان و (السلخہ)
 چکور کا بچہ۔

السلخ و السلخان - ہتھیار۔
 السایخ - فا - مسلخ - ہتھیار بند۔
 السلاخ - ہتھیار (نذر موت) ج - اسلیخہ
 و سلخ و سلخان۔
 السلاخ - پائخانہ، اسہال۔

السلیخ - قاصد (سریانی کلمہ ہے) پیغمبر
 المسلخ - میزین، پیرہ کی جگہ۔ ج۔
 مسالخ - مسلخ - جماعت۔

سلخ - اسلخت - الطریق - راستہ
 کا واضح لمبا اور سیدھا ہونا۔ صفت
 (مسلخت)

السحفاة و السحفاة و السحفاة
 و السحفاة - کچھوا۔ ج - سلاخ
 سلخ (ن) سلخا - الخروف - بکری
 کے بچہ کی کھال اتارنا۔ المذاة عورت
 کا اپنا کرتا اتارنا۔ العیة - سانپ
 کا اپنی کینچی اتارنا۔ الله النهار
 من الليل - اللہ کا دن کو رات سے
 علیحدہ کرنا۔ الرجل الشهر - مینہ
 کو آخر تک گزارنا۔ الشهر - مینہ
 کا گزرنہ۔

سلخ - الحو جلدہ - گرمی کا کسی کی
 کھال کو اتار دینا۔

اسلخ - من ثیابہ - ننگا ہونا۔
 الشهر من سنتہ - مینہ گزرنہ۔
 - النهار من الليل - دن کا رات
 سے علیحدہ ہونا۔ الحیة من
 قشرها - سانپ کی کینچی اتارنا۔

(و اسلخت) القصعة - پیالہ کو
 انگلیوں سے پھینکا۔ صاف کرنا۔
 اسلخت - چمکے سے بے خبری میں کھسکا۔
 السلٹ - بچہ پھلکے والا بچہ - پیغمبر جو۔
 السلٹ - دور کی ہوئی یا نکال ہوئی چیز۔
 پیالے کے اطراف سے انگلیوں سے
 پونچھی ہوئی چیز۔

الاسلٹ - جڑ سے کٹی ہوئی ناک والا۔
 مؤنث - ستاء - ج - سلٹ - امرأۃ
 ستاء - ہندی نہ لگنے والی عورت۔
 سلیج - دس - سلجا و سلجانا - اللقمة
 لقمہ ٹکنا۔ (ن) و سلجت (ن)
 سلوجا - الابل - سلج گھاس کھانے
 سے پیٹ چلنا۔ سلج الفصیل
 الناقۃ - دو دھ پینا۔

تسلج - الطعام - کھانا آسانی سے ٹکنا۔
 (و اسلج) الشراب - غٹ
 غٹ پی جانا۔

السلج - مص - بخش عطیہ - السلیج
 سمندری سپی - ج - سلج - السلیج
 ایک گھاس جس کو اونٹ چرتا ہے۔ ج -
 سلج - السلیج - السلیج
 السلیج - من الاکل - لذیذ عمدہ حلق سے
 جلد اتر جانے والی غذا۔

السلیج و السلیج - من
 الطعام - خوش مزہ خوراک۔

السلیج - شغم - گھنی داڑھی بے جڑوں
 والا سر۔ بہت پانی والا پرانا کنواں۔
 (و السلیج) لمبا گھوڑا یا تیر یا آدمی
 بہت بوڑھا اونٹ۔ ج - سلج -

سلج (ن) سلخا - بیٹ کرنا۔ لید کرنا۔
 (پرندوں اور چوپایوں کے لیے مخصوص ہے
 انسان کے لیے مجازاً آتا ہے)
 سلخہ - ہتھیار پہنانا۔ ہ السیف و
 بالسیف - کسی کے توار باندھنا۔



وَسَالِسٌ (کہتے ہیں "سلس" بحقیقہ)
اس نے میرا حق آسانی سے دیا۔

سَلِسٌ سَلَامًا وَسَلَسًا عقل جاتی رہنا۔
صفت (مَسْلُوسٌ)

سَلَسٌ - الحُلّی - زیور کو جواہرات سے
مُصَّع کرنا۔

تَسَلَسَ - الشَّيْءُ لَمَسْكَا۔
السَّلَسُ - دھاکا جس میں موقی فرمہ وغیرہ

پہوئے جائیں۔ کان کی بالی - ج۔
سُلُوسٌ۔

السَّلَسُ نرمی تا بعداری، پیشاب نہ کرنا۔
السَّلِسُ - آسان، نرم تا بعدار - وِسْمَارٌ

سَلِسٌ - پٹے والی میخ - شَرَابٌ
سَلِسٌ - حلق سے نرمی سے اتر جانے

والی شراب - "هُوَ سَلِسُ الْبَوْلِ"
یعنی اس کو پیشاب ٹپکنے کی بیماری ہے۔

السَّلَسِيلُ - نرم - ج۔ سَلَسِيَةٌ و
سَلَسِيْلَةٌ - مؤنث، سَلَسِيْلَةٌ

ج۔ سَلَسِيْلَاتٌ - شراب شیریں،
خوشگوار حلق سے آسانی اتر جانے والا

پانی بہشت کے ایک چشمہ کا نام -
سَلَسَلٌ سَلَسَلَةٌ - الشَّيْءُ يَالَسِيٌّ

ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا - ملانا -
- المَاءُ - پانی کو پستی کی طرف بہانا۔

"مَا سَلَسَلْ طَعَامًا" اس نے کھانا
نہیں کھایا۔

تَسَلَسَلَ - المَاءُ - پانی کا نشیبی زمین
میں بہنا - الثَّوْبُ - کپڑے کا پھٹنے

سے پتلا پڑ جانا - فَرَدُّ السَّيْفِ
تلواریں کے جوہر کا چکنا۔

السَّلَسَلُ وَالسَّلَسَالُ وَالسَّلَاسِلُ - شیریں
خوشگوار پانی - حلق سے آسانی اتر

جانے والی مزے دار شراب -
السَّلَسَلَةُ - کوہان کا لمبا ٹکڑا -

السَّلَسِلَةُ - لوہے وغیرہ کی زنجیر - کوہان

کا لمبا ٹکڑا - ج۔ سَلَسَلٌ - سَلَاسِلُ
الْبَرْقِ - بادل کی چوڑائی میں، لمبائی

میں چکنے والی بجلی - سَلَاسِلُ
الْكِتَابِ - کتاب کی سطریں -

المُسَلْسَلُ - مِنَ الْتِيَابِ - دھاری دار
کپڑا - شَعْرٌ مُسَلْسَلٌ - گھنگھریالے

بال - سَيَفٌ مُسَلْسَلٌ - چکنے والی
تلواریں - (وَالْمُسَلْسِلُ) مِنَ

الْتِيَابِ - ردی بناوٹ کا بوسیدہ
کپڑا -

سَلِطَارِسٌ وَسَلَطَارِكٌ سَلَاطَةُ -
وَسُلُوطَةٌ - زبان دراز ہونا -

سَلَطَةٌ - عَلَيْهِ - غلبہ دینا - اختیار دینا -
قالب بنانا -

تَسَلَطَ - عَلَيْهِ کسی پر غالب آنا -
قالب بننا - قادر ہونا -

السَّلَطُ - سخت، زبان دراز - لَبِي زَبَانِ -
السَّلَطُ - لَبِي لُتَاكِيْن - السَّلَطَةُ -

طاقت، حکومت - قدرت -
السَّلَطَةُ - پتلا لمبا تیر - وہ کپڑا جس میں

گھاس اور بھوسہ ڈالا جائے - ج۔
سَلَطٌ وَسَلَاطٌ -

السَّلِيْطُ - سخت، ہر چیز میں تیز، زیتون
کا عمرو تیل - ہر قسم کے دانہ کا تیل -

لِسَانٌ سَلِيْطٌ - لَبِي زَبَانِ - رَجُلٌ
سَلِيْطٌ - زبان دراز آدمی - السَّلِيْطُ

خوش بیان - تیز زبان آدمی - یہ جب
مرد کی صفت بن کر آتا ہے مدح کا سبب

بنتا ہے اور جب عورت کی صفت ہو کر
آتا ہے تو اس کی مذمت کا باعث ہوتا

ہے - اِمْرَأَةٌ سَلِيْطَةٌ - زبان دراز
بد زبان عورت - اِمْرَأَةٌ سَلَطَانَةٌ

اللسانِ وَسَلَطَانَةٌ - تیز زبان دراز
عورت -

السُّلْطَانُ - حُجَّت - دِلِيلٌ لَهُ سُلْطَانٌ

قَبِيْلٌ: اس کے لیے صاف اور
کھنی دلیل ہے - قدرت - اقتدار بادشاہ -

ج۔ سَلَاطِيْنٌ -
سَلْطَنَةُ سَلْطَنَةٌ - بادشاہ بنانا -

تَسَلْطَنَ - بادشاہ بننا -
السَّلَاطُ - کبھی کا دندنا - ج۔ سَلَايِظُ -

رَجُلٌ مَسْلُوْطٌ اللّٰحِيْقَةُ - ہلکی
داڑھی والا آدمی -

السَّلْطَنَةُ - الوَادِي - وادی کا وسیع و
فراخ ہونا - الرَّجُلُ مِنْهُ كَيْلٌ

یا پیٹھ کے بل گرنا - الشَّيْءُ لَبِيْ اور
چوڑی ہونا -

السَّلَاطُ - ج۔ چوڑا - المُسَلْطَةُ - چکنا
پھاڑ -

السَّلْطَنَةُ وَالْمُسَلْطَنَةُ - کشادہ فضا -
السَّلْطَنَةُ - الرَّجُلُ - چٹ لیٹنا -

السَّلْطُوْعُ - چکنا پھاڑ - السَّلْطَنَةُ -
پاگل کی طرح گفتگو میں جہالت کرنے والا

یا ایک کر بولنے والا - (وَالسَّلْطَنَةُ) -
لمبا آدمی -

سَلَعٌ رَفٌ سَلَعًا - الرَّاسُ - سر پھاڑنا
- جَلْدًا يَالْتَأَسًا - کھال کو آگ سے

جلا کر واغدا کرنا -
سَلَعٌ رَفٌ سَلَعًا - الرَّجُلُ - برص کی

بیماری میں مبتلا ہونا - قَدَمُهُ - پاؤں
کا پھٹنا -

أَسْلَمَ - پھٹے ہوئے سر والا ہونا - جسم میں
زخم والا ہونا -

سَلَعًا - پھاڑنا - سَلَعٌ - عَقْبَةٌ -
ایڑھی کا پھٹنا -

السَّلَعُ - پھٹنا - رَفْعًا -
السَّلَعُ - مَص - پاؤں کی پھٹن یا بوائی - ج۔

سَلُوْعٌ - واحد (سَلْعَةٌ) - (د -
وَالسَّلْعُ) - مثل، جم، عصر، ہم جولی -

غُلَامَانِ سَلْعَانِ - ہم عمر دو لڑکے -

بجول۔ فی الجبل۔ پہاڑ کی دراڑ۔ جہ
 اسلَعٌ و سُلُوعٌ۔
 السَّلْعُ۔ ایک کڑوا درخت۔ ایک بدو القہ
 سبزی۔ ایک قسم کا ایلا کھان میں جلنے کا
 داغ۔
 السَّلْعَةُ و السَّلْعَةُ۔ جلد کو بھاڑ دینے والا
 زخم۔ جہ۔ سَلْعَاتٌ و سِلْعٌ۔
 السِّلْعَةُ۔ سامان۔ تجارت کا مال۔ جہ۔
 سِلْعٌ۔ و السِّلْعَةُ و السِّلْعَةُ
 و السِّلْعَةُ۔ بھوڑا۔ غدود۔ جو تک۔
 الاسلَعُ۔ برص کی بیماری والا۔ کُبرا۔ بھٹے
 ہوئے پاؤں والا۔ جسم پر جلنے کے نشاںوں
 والا۔ مَوْنٌ۔ سَلْعَاءٌ۔ جہ۔ سُلْعٌ۔
 السُّوْلَعُ۔ ایلا۔
 السِّلِيعَةُ۔ طبیعت۔ المسلَعُ۔ بیابان
 کا راہبر و رہنما۔
 المسلُوعُ۔ بھٹی جلد والا۔ جسم پر بھوڑے والا
 یا غدود رکھنے والا۔ سَتْرٌ مَسْتَرْجٌ۔
 بہت تیز زہر۔
 المسْلَعَامُ۔ فراخ حلق والا۔ بڑے پیٹ
 والا۔ البلی ناک والا۔ بھیڑیا۔
 سَلْعَنٌ۔ فی عَدْوَةٍ۔ بہت تیز دوڑنا۔
 سَلْعٌ (ف)۔ سَلْعًا۔ راسلَعٌ۔ سر کیلنا۔
 سَلَعْتُ (ف)۔ سُلُوعًا۔ البَقْرَةُ اَو الشَّاةُ۔
 گائے یا بکری کا کچیاں نکالنا۔ صفت
 (سَالِغٌ)۔
 الاسْلَعُ۔ گہرا سرخ۔ برص کا مریض، کینہ
 لہیم۔ مِنَ اللَّحْمِ۔ کچا گوشت۔
 سَلْعَفَةٌ۔ ٹکنا۔
 سَلَفْتُ (ن)۔ سَلْفًا۔ الارض۔ زمین کو
 کاشت کے لیے بیجے سے برابر کرنا۔
 - المَزَادَةُ۔ مشک پر تیل لگانا۔
 سَلَفْتُ (ن)۔ سَلْفًا و سُلُوفًا۔ گذر جانا۔
 آگے بڑھنا۔ سَبَقْتُ کرنا۔ سَلَفْتُ
 القَوْمَ۔ قوم سے آگے نکلنا۔

سَلَفَةٌ۔ مَالًا۔ قرض دینا۔ الشَّيْ
 پیشگی دینا۔ الصَّيْفُ۔ جہان کے
 سامنے ناشتہ لانا۔ الرَّجُلُ
 ناشتہ کھانا۔ اسَلَفْتُ الارضَ۔
 زمین کو کاشت کے لیے ہموار کرنا۔
 هُ مَالًا۔ قرض دینا۔ فی الشَّيْ
 بیع سَم کرنا۔
 سَالَفَةٌ۔ فی الامر۔ کسی سے برابری کرنا۔
 - هُ فی الارضَ۔ کسی کے ساتھ
 ساتھ چلنا۔ الْجَمَلُ۔ اونٹ کا
 آگے بڑھنا۔
 سَلَفْتُ و اسْتَلَفْتُ۔ المَالُ۔ قرض لینا
 سَلَفْتُ۔ الرَّجُلُ۔ ناشتہ کرنا۔
 سَلَفْتُ۔ الرَّجُلَانِ۔ آپس میں
 ہم زلفت ہونا۔ اور وہ دونوں سَلْفَانِ
 ہیں۔
 اسْتَسَلَفْتُ۔ المَالُ۔ قرض لینا۔
 السَّلْفُ۔ مَصٌ۔ توشہ دان۔ چڑے کا
 ٹھکانہ۔ جہ۔ سُلُوفٌ و اسْلَفْتُ۔
 السِّلْفُ۔ چڑا۔ کھال۔ سِلْفُ الرَّجُلِ
 ہم زلف۔ جہ۔ اسْلَافٌ۔
 السَّلْفُ۔ مَسٌ۔ قرض حسنہ، عمل صالح۔
 گذشتہ آباؤ اجداد۔ جہ۔ اسْلَافٌ
 السِّلْفُ۔ چڑا۔ ہم زلف۔ جہ۔ اسْلَافٌ
 اَرْضٌ سَلْفَةٌ۔ کم درختوں والی زمین
 السِّلْفُ۔ پتھر کا کوزہ۔ جہ۔ سِلْفَانِ
 و سِلْفَانِ۔
 السِّلْفَةُ۔ ناشتہ، گذرا ہوا گروہ۔ موزوں
 کا باریک چڑے کا استر۔ جہ۔
 بیجے سے برابر کی ہوئی زمین۔ کہتے ہیں
 ”جَاؤْ و اسْلَفَةُ سَلْفَةٍ“۔ وہ
 ایک دوسرے کے بعد آئے۔
 السُّلَافُ و السِّلَافَةُ۔ نچوڑنے سے
 پہلے بھر جانے والا انگور کا رس۔
 سُلَافُ الْعَسْكَرِ۔ فوج کا ہراول

دستہ۔ سُلَافَةُ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہر
 نچوڑی چیز کا ابتدائی حصہ۔ جہ۔
 سُلَافَاتٌ۔
 الاسْلُوفَةُ۔ سُررال کا تعلق۔ شادی کے
 ذریعہ رشتہ داری۔
 السَّالِفُ۔ فَا۔ گذرا ہوا۔ آگے بڑھنے والا
 ”كَانَ ذَلِكْ فِي سَالِفِ الْاَيَّامِ“
 یہ گذشتہ دنوں میں تھا۔ جہ۔ سَلَفْتُ
 و سُلَافْتُ۔
 السَّالِفَةُ۔ گذری ہوئی۔ گردن کے اگلے
 حصہ کا پہلو جو کان کی بالی کے برابر ہوتا
 ہے۔ جہ۔ سَوَالِفٌ۔
 السُّلُوفُ۔ مِنَ الْاِبِلِ۔ گھاٹ پر جاتے
 وقت سب سے آگے رہنے والا اونٹ
 - مِنَ الْخَيْلِ۔ تیز گھوڑا۔ سَهْمٌ
 سُلُوفٌ۔ لمبا تیر۔ جہ۔ سَلَفْتُ۔
 السِّلِيفُ۔ آگے ہونے والا۔ آگے
 چلنے والا۔ جماعت متقدمین۔ جہ۔
 سُلُوفٌ۔
 المُسْلِفُ۔ پنتالیس سالہ عورت۔
 المُسْلَفَةُ۔ بینک۔ پیٹلہ۔ سراون۔ کلی
 سَلَقْتُ (ن)۔ سَلَقًا۔ الْبَيْضُ اَو الْبَقْلُ۔
 انڈے یا سبزی کو آگ پر پانی میں جوش
 دینا۔ اَبَالًا۔ سَلَقَةً۔ بِالْكَلَامِ۔
 بات سے کسی کو ایذا پہنچانا۔ سَلَقَوْكُمْ
 بِالْاِسْنَةِ حِدَادٍ۔ تم کو وہ تیز تیز
 زبان سے طعنے دیتے ہیں۔ بِالرُّمَحِ
 نیزہ مارنا۔ بِالسُّوْطِ۔ کوڑوں سے
 مار مار کر کھال ادھیڑ دینا۔ سَلَقَ اللَّحْمَ
 عَنِ الْعِظَمِ۔ ہڈی پر سے گوشت
 چھیننا۔ الشَّيْءُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ۔ گرم
 پانی سے کسی چیز کے بال اتارنا۔
 الدَّابَّةُ الْوَاكِبَةُ۔ جانور کا سوار کی
 ران کو اندر کی جانب سے پھیل دینا۔
 الْمَزَادَةُ۔ مشک یا توشہ دان پر



- الشئ کسی شے پر قبضہ کرنا۔ مثلاً
کسی سے بری ہونا۔ بیزار ہونا۔

تَسَالَمَ - القوم مصالحت کرنا۔ آپس
میں اتحاد و اتفاق کرنا۔ تَسَالَمَتِ
الْحَيْلُ بغیر طائی بھڑائی کے گھوڑوں
کا ساتھ ساتھ چلنا۔

اِسْتَلَمَ - الْحَجَرُ پتھر کو ہاتھ سے چھونا
یا منہ سے چومنا۔ پتھر کے علاوہ اور چیز
کے لیے بھی آتا ہے۔ مثلاً آپ کہہ سکتے
ہیں اِسْتَلَمْتُ يَدَهُ میں نے اس
کے ہاتھ کو چھو لیا یا چوم لیا۔ الزَّوْجُ
کھیتی کا خوشہ نکالنا۔ بالیاں نکالنا۔

اِسْتَسْلَمَ - تابعدار ہونا۔
تَسَلَّمَ - مسلمان کہلانا۔

اِسْلَمَ - ص - ایک کڑے والا ڈول۔
ج - اَسْلَمٌ وِيسْلَامٌ۔

اِسْلَمَ - صلح کرنے والا۔ کہتے ہیں اَنَا
يَسْلَمُ لِمَنْ سَالَمَنِي وَحَرْبُ
يَمَنْ حَارِبَنِي میں صلح کر نیوالے
کے لیے صلح جو اور لڑنے والے کے لیے
جنگ جو ہوں۔ قومِ مسلم و مسلم
مسلحین قومِ سلامتی۔ اسلام۔

اِسْلَمَ - سلامتی، تابعداری۔ قید۔ قیدی
ایک قسم کا درخت جس کے پتے چترہ
رنگ کے کام آتے ہیں۔

اِسْلَمَ - سیرھی (مذکر مؤنث) ج -
سَلَامٌ و سَلَامٌ کسی چیز کی
طرف وسیلہ اور سبب۔

اِسْلَمَ - پتھر ج - يَسْلَمٌ نرم ہاتھ
پیر والی عورت۔

اِسْلَامٌ - ص - تسلیم کا اسم۔ ملاقات
کے وقت کی دعا یعنی السلام علیکم
طاعت و فرمانبرداری کے لیے جھکنا۔
اللہ تعالیٰ کا نام نامی، کیونکہ اس کی ذات
تمام عیوب و نقائص سے پاک و بری ہے

دَارُ السَّلَامِ - جنت۔ مَدِينَةُ
السَّلَامِ - بغداد۔ نَهْرُ السَّلَامِ -

دجلہ۔ و السَّلَامُ ایک تلخ ذائقہ
کا درخت۔ واحد سَلَامَةٌ و
يَسْلَامَةٌ

اِسْلَامَةٌ - عیوب و آفات سے پاکی اور
بریت۔

اِسْلَامِي - ہر کھوکھلی جھوٹی بڑی جس طرح
انگلیوں کی ہڈیاں ج - سَلَامِيَّاتُ
اِسْلَامِي - جنوبی ہوا۔

اِسْلِمَانِي - ایک قسم کا زہر ہے جو پارہ
سے بنایا جاتا ہے۔

اِسْلَامٌ - آنکھ اور ناک کے درمیان
کی کھال۔

اِسْلِيمٌ - ج - سَلْمِي - ڈسا ہوا سخت
زخمی قریب الموت۔ نیک فالی کے لیے

نام رکھا ہے ج - سَلْمَاءُ آفتوں
سے محفوظ۔

اِسْلَمَ - آفتوں سے بہت زیادہ محفوظ
مؤنث۔ سَلْمِي۔

اِسْلَامٌ - ص - اللہ کے حکم کے سامنے
بلاچون و چرا سر جھکا دینا۔ مذہب

اسلام، کبھی مسلمانوں کے لیے بھی
استعمال کیا جاتا ہے۔

اِسْلَمٌ - دین اسلام کا پیرو۔ ج -
مُسْلِمُونَ - مؤنث۔ مُسْلِمَةٌ۔

ج - مُسْلِمَاتُ - اَرْضُ مُسْلِمَاءُ
جس زمین میں سلم و درخت زیادہ ہوں۔

اِسْلَهَبَ - افسوس۔ گھوڑے کا لمبا ہونا
اِسْلَهَبَ - لمبا۔ ج - سَلَاهِبٌ و

سَلَاهِبَةٌ - اِسْلَهَبَةُ مِنَ النِّسَاءِ
بڑے فاقو قامت کی عورت۔

سَلَا يَسْلُو سَلَوًا و سَلَوًا و سَلَوًا
و سَلَى يَسْلِي سَلِيًّا - الشئ و

عَنْهُ - بھول جانا۔ تسلی پانا۔ بے غم ہونا

اَسْلَى اِسْلَاءً - القوم درندوں سے
امن میں ہونا۔ اَسْلَاءٌ عَنْ هَيْبَةٍ۔

کسی کا غم دور کرنا۔
سَلَى تَسْلِيَةً - فَلَانًا عَنِ الشَّيْءِ۔
تسلی دینا۔

تَسَلَّى تَسْلِيًّا - تکلف سے تسلی کا اظہار
کرنا تسلی پانا۔ و اِنْسَلَى، اِلَهَمُ
غم دور ہونا۔

اِسْتَلَّتْ اِسْتِلَاءً - الشَّاةُ بکری کا
فرہ ہونا۔

اِسْلُوَةٌ و اِسْلُوَةٌ - تسلی۔ "هُوَ فِي
سَلْوَةٍ مِنَ الْعَيْشِ" وہ آسودہ حال

میں ہے۔
اِسْلَوَانٌ (و اِسْلَوَانَةٌ و اِسْلَوَانَةٌ)

ایک قسم کا مہرہ جس کو نظر بد سے بچنے کے
لیے استعمال کرتے ہیں۔

اِسْلَوِي - شد، ہر تسلی بخش چیز کو۔
واحد (سَلْوَةٌ)

اِسْلِي - گھردور کا تیسرا گھوڑا۔
سَلِيَّتٌ تَسْلِي سَلَى - الشَّاةُ ٹوٹی

ہوئی جیل والی ہونا صفت (سَلِيَاءُ)
اَسْلَتِ - الشَّاةُ بکری کا جلی ڈالنا۔

سَلَى - الشَّاةُ بکری کا جلی نکالنا۔
اِسْلَى - جلی۔ ج - اَسْلَاءٌ کہتے ہیں۔

"اِنْقَطَعَ السَّلَى فِي الْبَطْنِ" یعنی اب
جیل جاتا رہا اور مصیبت بڑھ گئی۔

"هُوَ اَكْلُ الْاَسْلَاءِ" وہ بہت
خمیس و کمینہ ہے۔

سَمَّةٌ (ن) سَمًا - زہر پلانا۔ اِلْطَاعُ
کھانے میں زہر پلانا۔ اِلْقَاؤُورَةٌ۔

بوتل کو بند کرنا۔ الشئ کو اصلاح کرنا۔
درست کرنا۔ بَيْنَهُمَا صلح کرنا۔

اَلْاَمْرَ - معاملہ کی تہ تک پہنچ کر اس
کی آزمائش کرنا۔ اس کو جانچنا۔ سَمَّ

النِّعْمَةِ اِلَيْهِ - مخصوص کرنا۔ سَمَّ

الشیء سب کو عام ہونا۔
 سَمَتَ (رَن) سَمُوْمًا۔ الریح جھلسنا۔
 سَمَد۔ الیوم گرمی کا تیز ہونا۔ سخت
 لوہلٹنا۔ النبات پودہ کا ہوا سے
 جھلس جانا۔ صفت (مَسْمُوْمٌ)
 سَمَمَ۔ الطعام کھانے میں زہر ڈالنا۔
 اَسَمَدُ اسْمَامًا۔ الیوم دن میں باد
 سموم چلنا۔ لوہلٹنا۔
 السَّمُ والسَّمُ والسَّمُ سوئی کا ناکا۔
 زہر۔ ج۔ سَمَامٌ وَسَمُوْمٌ۔ سَمَدُ
 الحیار۔ کبیر۔ سَمَدُ الفار۔ سَمَدُ
 سَمَدُ السَّمَلِ ایک دوکانام۔
 سَمَدُ سَاعَةٍ فوراً ہلاک کر دینے والا
 زہر۔ کہتے ہیں: "أَصَابَ سَمَدٌ
 حَاجَتَهُ" اس نے اپنا مقصد پایا۔
 سَمَدٌ ہر اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو
 سمندر سے نکلے، مثلاً سنکھ، گھونگا
 وغیرہ۔
 السَّمَدُ قرابت۔ کھجور کے پتوں کی چٹائی۔
 جو کھجور کے درخت کے نیچے اس
 مقصد سے بچھائی جائے کہ اوپر سے
 گرمی ہوئی کھجوریں اسی پر گریں۔ زینت
 کی خاطر پروٹی ہوئی کوڑیاں۔ ج۔
 سَمَدٌ وَسَمَامٌ۔
 سَمِيَّةٌ۔ الشیء چیز کا زہریلا اثر۔
 السَّمَامُ ہلکا پھلکا تیز۔ ایک پھول پرندہ۔
 واحد (سَمَامَةٌ)
 السَّمَامُ وَالسَّمُوْمُ۔ مِنَ الْإِنْسَانِ
 انسانی جسم کے سوراخ جیسے منہ،
 ناک، کان۔
 السَّمُوْمُ۔ بادِ سموم۔ لُ۔ ج۔ سَمَائِمٌ۔
 السَّمَامَةُ۔ بعد انسانی۔ جھمی السَّمَامَةُ۔
 خوبصورت بدن والا۔ کھنڈرات۔ جھنڈا۔
 دائرہ جو گھوڑے کی گردن پر ہوتا ہے۔
 ابابیل کے مانند ایک پرندہ۔ اس کے

اٹکے ناقابل حصول ہیں۔ اس لیے عرب
 کہتے ہیں: "كَفَفْتَنِي بَيْضَ السَّمَائِ"
 یعنی تم نے مجھ کو ناقابل وصول و ناقابل
 عمل چیز کی تکلیف دی۔
 السَّمَامُ۔ زہریلا۔ مؤنث۔ سَامٌ۔ خاص۔
 کہتے ہیں: "عَرَفَ ذَلِكَ السَّامَةَ"
 والعامة اس کو عام خاص سب
 جانتے ہیں۔
 سَامٌ أَبْرَصٌ وَسَمٌ أَبْرَصٌ۔ چھپکلی۔ ج۔
 أَبْرَصٌ وَسَوَامٌ أَبْرَصٌ۔ یوم
 سَامٌ وَمُسَمٌ وَسَمُوْمٌ۔ گرم ہوا
 والادن۔
 الْأَسْمُ نَتَجٌ نَحْنُهُ وَالَا۔
 الْمَسَامُ۔ مِنَ الْجِلْدِ۔ جلد کے باریک
 باریک مسامات و سوراخ۔ آہل
 المسَمَةِ۔ خاص لوگ رشتہ دار۔
 سَمَالٌ۔ الْخَلُّ۔ سرکہ کا کھیل والا ہونا
 اِسْمَانٌ اِسْمَانٌ لَازِلٌ۔ دہلا دلاؤ ہونا۔
 الظِّلُّ۔ سایہ کا چھوٹا ہونا۔
 السَّمَالُ۔ سایہ۔
 السَّمُوَالُ۔ سایہ۔ سرکہ کے اوپر کی مٹی
 ایک مشہور وفادار شخص جو وفا میں
 ضرب المثل ہے۔
 الْمَسْمِيَّةُ۔ بوسیدہ کپڑا۔
 سَمَتَ (رَن) ض۔ سَمَتًا۔ راستہ اختیار کرنا
 راہ راست پر چلنا۔ گمان سے راستہ
 پر چلنا۔ سَمَتَ الشیءُ وَسَمَتَ نَحْوَهُ
 ارادہ کرنا۔ قصد کرنا، اور اسی سے ہے
 "وَهُنَّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَيْنِيِّ سَوَامِيَّةٌ"
 اور وہ بیت اللہ شریف کی طرف قصد
 کرنے والی ہیں۔
 سَمَتَ۔ راستہ اختیار کرنا۔ لِلْعَاطِلِ
 پھینکنے والے کے لیے یرحمک
 اللہ کہہ کر دعا کرنا۔
 کسی چیز پر اللہ کا نام لینا۔

سَامَتَ۔ کسی کے مقابل اور آمنے سامنے
 ہونا۔
 تَسَمَّتَ۔ ارادہ کرنا۔ قصد کرنا۔
 السَّمَتُ۔ مص۔ راستہ۔ ج۔ سَمُوْتٌ۔
 سَمَتُ الرَّاسِ۔ علم ہیئت کی
 اصطلاح میں آسمان پر وہ نقطہ جو سیدھے
 کھڑے ہوئے انسان کے سر کے بالکل
 سیدھے میں متصور ہوتا ہے۔ اس کے
 مقابل نقطہ "سَمَتُ الْقَدَمِ"
 کہلاتا ہے۔
 سَمِيحٌ (رَك) سَمَاجَةٌ وَسَمُوَجَةٌ۔ بد شکل
 ہونا۔ قبیح ہونا۔ صفت (سَمِيحٌ و
 سَمِيحٌ وَسَمِيحٌ)۔ ج۔ سَمَاجٌ و
 سَمِيحٌ وَسَمَاجٌ وَسَمَاجٌ
 سَمِيحَةٌ۔ قبیح بنانا۔
 اِسْتَسَمِيحَ۔ کسی کو قبیح بنانا۔ سمجھنا۔
 السَمِيحُ وَالسَمِيحُ۔ خراب اور بد مزہ
 دودھ۔
 سَمَحَ (رَن) سَمَاحًا وَسَمُوَحًا وَسَمَاحَةً
 وَسَمُوَحَةً۔ سَمَحًا وَسَمَاحًا۔
 فیاض و سخی ہونا۔ صفت (سَمَحٌ و
 سَمِيحٌ وَسَمَحٌ وَسَمَاحٌ)۔ ج۔
 سَمَاحٌ وَسَمَاحٌ وَسَمَاحٌ۔
 سَمَحَ (رَن) سَمَاحًا وَسَمَاحَةً۔
 بَکْدَارٌ۔ بخشش کرنا۔ لُ۔ بالشیء۔
 دینا۔ الْغُودُ۔ کڑی کا نرم ہونا۔
 النَاقَةُ۔ اونٹنی کا مِطِیع اور تیز رفتار
 ہونا۔
 سَمَحَ۔ نرم ہونا۔ نرمی کا برتاؤ کرنا۔
 الرُّمَحُ۔ نیزہ کو نرم کرنا۔ الرُّجُلُ
 کسی کا نرم چال چلنا۔ تیزی کرنا۔ بھاگنا۔
 اَسَمَحَ۔ الرُّجُلُ۔ فیاض و سخی ہونا۔
 اَسَمَحَتِ الدَّائِلَةُ۔ جانور کا سرکشی
 کے بعد رام ہو جانا۔
 سَافَحَكَ۔ فِي الْأَمْرِ وَالْأَمْرِ نرم برتاؤ

کرنا۔ مقصد میں موافقت کرنا۔ ۵
 يَذْنِبُ۔ گناہ معاف کرنا۔ گناہ سے
 درگزر کرنا۔
 تَسَمَّعَ وَتَسَامَعَ۔ یعنی کذا۔ نرمی برتنا۔
 ایک دوسرے سے درگزر کرنا۔
 السَّمَاحُ۔ صی۔ بَيْعُ السَّمَاحِ وہ بیع جس
 میں قیمت گھٹانے میں نرمی کی جائے۔
 "السَّمَاحُ رَّيَاسَةٌ" یعنی معاملات
 میں نرمی کے ساتھ نفع اندوزی ہے۔
 السَّمَاحُ۔ حم۔ چڑے کا خیمہ۔
 الْمُسَمَّحُ۔ وَسْعَتُ وَفَرَاخِي۔
 السَّمْحَاقُ۔ سرکی بڈی پر باریک بھلی۔
 سَمَاءُ حَيْقُ السَّمَاءِ۔ آسمان پر بادل
 کے پتلے پتلے ٹکڑے۔
 سَمَمَةٌ (دُن) سَمَخًا۔ الزَّرْعُ۔ کھیتی کا
 پھوٹنا۔ سَمَخَةٌ (دُن) سَمَخًا۔ کان
 کے سوراخ پر چوٹ لگا کر زخمی کرنا۔
 "زَرْعٌ حَسَنٌ السَّمْحَةُ" اچھی اُگنے
 اور بڑھنے والی کھیتی۔
 السَّمَاحُ۔ کان کا سوراخ۔
 سَمَدٌ (دُن) سَمُودًا۔ حیران کھڑا ہونا۔
 مہوت ہونا۔ گانا۔ تکبر سے سراونچا کرنا۔
 اور سینہ تانا۔ فِي الْعَمَلِ۔ کام میں
 مشغول ہونا۔ الْإِبِلُ۔ اونٹ کا تیز
 چلنا۔ سَمَدًا (الرجل) قصد کرنا۔
 سَمَدٌ۔ الْأَرْضُ۔ زمین میں کھاؤ والنا۔
 الشَّعْرُ بالوں کو جڑ سے منڈ دینا۔ الرجل۔
 کسی کو کھیل کود میں لگانا۔ بھلانا۔
 لَسَمَدًا لَسَمَدًا اور لَسَمَدًا لَسَمَدًا
 الرجل کسی کا غصہ سے پھول جانا
 يَدُّ۔ ہاتھ کا سُوجنا۔ متورم۔
 الشَّيْءُ۔ گم ہو جانا۔ "هُوَ لَكَ سَمَدًا"
 وہ ہمیشہ کے لیے بھٹا رہا۔
 السَّمَادُ۔ کھاؤ۔ السَّامِدُ۔ فَا۔ وَطْبُ
 سَاوِدٌ۔ بھری ہوئی کھڑی مشک۔

السَّمْدُ۔ وَالسَّمِيدُ۔ ایک کٹر ہے
 جو پانی اور خشکی میں زندگی گزارتا ہے۔
 آگ کا کٹر ہے۔
 السَّمِيدُ ع۔ قِیَاضُ سُرَدَار۔ شریف۔ بہادر
 بھیڑ یا تلوار۔ ج۔ سَمَادِ ع۔
 السَّمِيدُ ع وَالسَّمِيدُ ع۔ سِفِيَا۔
 سَمَرَدَن، سَمَرَا۔ الْعَيْنُ۔ گرم سلائی
 سے آنکھ پھوٹنا۔
 رات کو باتوں میں گزارنا اور نہ سونا۔
 سَمَرَدَن (ض) سَمَرَا وَ سَمَر۔ الْكَبَنُ۔
 دودھ میں پانی ملا کر اس کو پتلا کرنا۔
 الْخَمَرُ۔ شراب پینا۔ الْمَائِشِيَّةُ
 النَّبَاتُ۔ مویشی کا گھاس چرنا۔
 الْبَابُ وَغَيْرُهُ۔ دروازہ وغیرہ کو
 میخ سے مضبوط کرنا۔ السَّهْمُ۔ تیر
 چھوڑنا۔ تیر چلانا۔
 سَمَرَدَس، وَ سَمَرَدَك، سَمُودَةٌ وَ سَمَر
 لَسَمَرًا اور لَسَمَرًا لَسَمِيرًا سَمَا۔
 گندم کوں ہونا۔ صفت (سَمَر) مُرْت
 سَمَرَاءُ۔ ج۔ سَمُر۔
 سَامَرَةٌ۔ کسی کے ساتھ رات کو بات
 چیت کرنا۔
 تَسَمَّرَ۔ میخ سے مضبوط ہونا۔
 تَسَامَرَ۔ الْقَوْمُ۔ لوگوں کا آپس میں
 رات کو باتیں کرنا۔
 السَّمُرُ۔ رات کو باتیں کرنے والا۔ ج۔
 أَسَمَارٌ۔ رات، رات کی تاریکی۔
 "لَا أُنَبِّئُ سَمَرًا" میں اس کے پاس
 رات کو نہیں آؤں گا۔ رات کی بات چیت
 چاند کا سایہ یعنی وہ چیز جو چاند کی آنکھ
 سے مانع ہو جیسے دیوار یا چھت وغیرہ
 اور کبھی اہل عرب جہاں چاندنی ہو تو اسے
 قَمَرٌ اور جہاں نہ ہو تو اسے بطور
 مقابلہ سَمُرُ کہتے ہیں۔ زمانہ۔ بات
 کرنے والوں کی مجلس۔ کہتے ہیں "لَا

أَكَلْنَا السَّمُرَ وَالْقَمَرَ" یعنی جب
 تک چاند سایہ نکلے گا، میں کبھی اس سے
 بات نہیں کروں گا۔
 السَّمُرَةُ۔ رات کی گفتگو۔ السَّمُرُ بول
 کا درخت۔ ج۔ أَسَمَر۔ واحد
 (سَمُرَةٌ)
 السَّامِرُ۔ فَا۔ ج۔ سَمُرٌ وَ سَمَارٌ۔ رات
 کو باتیں کرنے والوں کی مجلس۔ (وَالسَّامِرَةُ)
 رات میں باتیں کرنے والوں کی جماعت
 (اسم جمع ہے)
 السَّامُورُ۔ ہیرا۔
 السَّمَارُ۔ بہت پانی ملا دودھ۔
 الْأَسَمُرُ۔ نیزہ۔ ہرنی کا دودھ۔ عَامٌ
 أَسَمُرٌ۔ بے بارش والا خشک سال۔
 الْأَسَمَرَاتُ۔ پانی اور گیوں پانی اور نیزہ۔
 الْمَسْمُورُ۔ تیز رفتاراچھی نسل کی اونٹنی۔
 السَّمُورُ۔ یوں کے مشابہ اور اس سے
 قدرے بڑا ایک جانور۔ اس کی کھال سے
 قیمتی پوستیں تیار ہوتے ہیں۔ اس کی
 کھال کو بھی سَمُورُ کہتے ہیں۔ ج۔
 سَمَامِيرُ۔
 السَّمِيرُ۔ رات کو باتیں سنانے والا۔ زمانہ
 رَاتِنَا سَمِيرُ۔ رات و دن۔ "لَا أَفْعَلُهُ
 سَمِيرًا لِّلْيَالِي" میں اس کو کبھی نہیں
 کروں گا۔ "ابنُ سَمِيرٍ" اس اندھیری
 رات کو بھی کہتے ہیں۔ جس میں چاند نہ
 نکلا ہو۔
 السَّمَارُ۔ کیل۔ میخ۔ اونٹوں کا اچھا رکھوالا۔
 ج۔ مَسَامِيرُ۔
 الْمَسْمُورُ۔ کم گوشت سحت پٹھوں والا۔
 بد مزہ زندگی۔
 الْمَسْمُورُ۔ مڈی کا شکار کرنے والا ایک
 چھوٹا پرندہ۔ تیر۔
 تَسَمَّرَ سَمَسَرَةً۔ دلالی کرنا۔
 السَّمْسَارُ۔ دلالی۔ چیز کا مالک اور اس کا



منتظم۔

يَسْمَارُ - الأرض - زمین کا ماہر۔ ج
سَمَاسِرَةٌ وَسَمَاسِرٌ وَسَمَاسِرٌالسَّمْسَرَةُ - مص - دلال کا پیشہ۔ دلال
کی اجرت۔السَّمْسِقُ وَالسَّمْسِقُ وَالسَّمْسِقُ
وَالسَّمْسِقُ - چنبیلی۔ مرز بخوش۔سَمَسَم - الثعلب - لومڑی کا دوڑنا۔
- الرجل - نرم چال چلنا۔

السَّمَسَم - لومڑی۔ بھڑیا۔ زہر۔

السَّمَسَم - سرخ چوٹی۔ چھوٹی چوٹی۔
واحد (سَمَسَمَةٌ) سبک آدمی۔

ج - سَمَاسِمٌ -

السَّمْسِم - تل - واحد (سَمْسِمَةٌ)

السَّمَاسِم - لومڑی (و السَّمْسِمَانُ و

السَّمْسِمَانِي) سبک آدمی لطیف

چیز۔

سَمَطَان - سَمُوطَا - الرجل - چپ و

خاموش ہونا۔ عَلَى الْيَمِينِ - قسم

کھانا۔ - اللَّبَنُ دودھ کی مٹھاس

میں فرق آنا۔ صفت (سَمَاطُ)

سَمَطَرَان (ض) سَمَطَا - الجدِّي - بکری

کے بچہ کے بال صاف کہے اس کو بھوننا

- الشَّيْءُ لُثْكَانَا - السَّكِين - چھری

تیز کرنا۔ سَمَطُ الرَّجُلِ جَمِيدًا

عَلَى حَتَّى میں نے فدا سے اپنے

حق پر قسم کھلائی۔

سَمَط - چپ رہنا۔ الشَّيْءُ لازم پکڑنا

زمین کے تسم سے لڑکانا۔ الشَّاعِرُ

شاعر کا سَمَطُ اشعار نظم کرنا۔ سَمَطُ

قَصِيدَةٍ فَلَانِ کسی کے اشعار میں

برہر شعر کے مصرعوں میں ایک مصرعہ

اپنی جانب سے ختم کرنا۔

أَسْمَط - چپ رہنا۔ تَسْمَطُ الشَّيْءُ

یہ۔ لکنا۔

السَّمَطُ - موتی یا مرہ وغیرہ پروئی ہوئی لڑی

زمین کا تسم جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔

کتے میں: عَلَقَتْهُ بِسَمُوطٍ سَرَجِهِ

اسے زمین کے تسم سے لٹکا دیا۔

مِنَ الْعَمَامَةِ - گڑھی کا شملہ۔ گلوبند

زیور (مِنَ الرَّمْلِ) ریت کی

کیر۔ رَجُلٌ سَمَطٌ - چست و چالاک

آدمی۔ ج۔ سَمُوطٌ -

السَّمَطُ - مص - فقیر آدمی۔

السَّمَطُ - اونٹنی کا بچہ۔ نَعْلُ سَمَطٍ و

أَسْمَاطُ - کھیرے چڑے کا جوتا۔

نَاقَةٌ سَمَطٌ وَأَسْمَاطٌ - بے داغ

اونٹنی۔ سَرَاوِيلُ أَسْمَاطٍ - اکھرا

پانچامہ۔

السَّامِطُ - فَا - مَاءٌ سَامِطٌ - جوش کھایا

ہوا پانی جو کسی چیز کے بال وغیرہ صاف

کر دے۔

السَّامِطُ - صف بستہ۔ نئی دسترخوان۔

سَمَاطُ الطَّرِيقِ - راستہ کے ہر دو پہلو

- سَمَاطُ الْقَوْمِ - لوگوں کی قطار۔

ج۔ سَمَطٌ - "وَهُمْ عَلَى سَمَاطٍ

وَاحِدٍ" یعنی وہ ایک ہی نظام پر ہیں۔

السَّمِيطُ - بال صاف کیا ہوا بھوننا ہوا

بکری کا بچہ۔ سبک مال آدمی۔ فقیر

ایٹوں کا ردا۔ نَعْلُ سَمِيطٍ - ایک

بچہ چڑے کا جوتا۔

السَّمِيطُ - مِنَ الشَّعْرِ - شعر جو عروسی

اجزاء پر منقسم ہو اور قافیہ کی رومی پر

نہ ہو۔ حُلْمُكَ سَمِيطٌ - تمھارا

حکم پورا کیا ہوا ہے۔ اس کا نصب

حالیہ کی بنا پر ہے۔

السَّمِيطُ - ایک آبی پرندہ جو ہمیشہ

پتے پانی میں ملتا ہے۔

سَمِعَ (دس) سَمَعًا وَسَمَعًا وَسَمَاعًا

وَسَمَاعَةً وَسَمَاعِيَّةً وَمَسْمَعًا

- الصَّوْتُ - سنا۔ صفت (سَامِعٌ)

ج۔ سَمَاعٌ وَسَمْعَةٌ وَسَامِعُونَ

- لَهُ اللَّهُ - قبول کرنا۔ مِنْهُ وَلَهُ

دینا۔ إِلَيْهِ - کسی کی طرف کان لگانا۔

سَمَعَهُ - الصوت - سنانا۔

سَمِعَ يَدَهُ - کسی کا عیب مشہور کرنا اور

رسوا کرنا۔ بِدِ الْفَاظِ سے خطاب کرنا۔

گالی دینا۔

سَمِعَ - يَكْذِبُ - کسی کے متعلق کوئی چیز

پھیلانا۔ بِفُلَانٍ فِي النَّاسِ - شہرت

دینا۔

أَسْمَعُهُ - سنانا۔ گالی دینا۔

تَسَمِعَ وَاسْمَعُ - الرجلُ وَالْيَدُ -

کان دھرنا۔

تَسَامَعُ - يَدُ النَّاسِ - کسی کے متعلق لوگوں

کا ایک دوسرے سے سنا۔

إِسْتَمَعَ - لَهُ وَالْيَدُ - کان لگانا۔

إِسْتَمَعَ - سنا۔

السَّمْعُ - مص - سننے کی قوت۔ کان۔ سنی

ہوئی بات، سنا ہوا ذکر۔ ج۔ أَسْمَاعُ

وَأَسْمَعٌ وَجِبْ - أَسَامِعُ و

أَسَامِعُ - کتے ہیں "هُوَ مَا بَيْنَ

سَمْعِ الْأَرْضِ وَبَصَرِهَا" جبکہ کوئی

نامعلوم جگہ چلا جائے یا ایسی تنہائی کی

جگہ میں ہو جہاں اس کو نہ کوئی سن سکتا

ہو، نہ دیکھ سکتا ہو۔ و سَمْعَكَ

إِلَى - میری طرف کان لگاؤ۔ اَمْرٌ

السَّمْعُ - دماغ۔

السَّمْعُ - اچھی شہرت۔ اِجْهَازُكَ -

يَسْمَعُ - اچھی شہرت کا آدمی "هَذَا

أَمْرٌ ذُو سَمْعٍ" یہ امر سننے کے قابل

ہے اور جب کسی کو کوئی بات اچھی نہ

لگے تو کہتے ہیں۔ سَمْعًا لَا بَلْغًا - یعنی

سن لے بتانا نہیں۔

السَّمْعُ - بھوسے بیڑے کا بچہ۔ مَوْنُثُ -



(سَمْعَةٌ) اس کی لذت سماع بہت تیز ہوتی ہے یہاں تک کہ ضرب المثل ہے "هُوَ أَسْمَعُ مِنْ سَمِيعٍ" السَمْعَةُ سَمِعَ کا اسم مرۃ۔ اُذُنٌ سَمْعَةٌ سننے والا کان۔ "فَعَلَتْهُ رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے کیا۔ السَمْعَةُ شہرت۔ ذکر۔ السَّمَاعُ مص شہرت۔ گیت۔ "قَالُوا ذَلِكَ سَمَاعٌ أَذُنِي" لوگوں نے یہ بات میرے سامنے کہی سَمَاعُ اسم فعل السَمِعَ کے معنی میں یعنی سن۔ السَّمَاعُ بہت سننے والا۔ فرماں بردار۔ جاسوس۔ السَّمِيعُ سننے والا۔ سنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے ایک اسم سنی ہوئی بات۔ ج۔ سَمْعَاءُ السَّامِعَةُ کان۔ السَّامِعَانِ ہر دو کان۔ السَّمَاعَةُ ایک آلہ جو سننے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ التَّسْمِيعَةُ کہتے ہیں۔ "فَعَلَتْهُ تَسْمِيعًا" اَوْ تَسْمِيعَةً لَكَ میں نے تم کو سنانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ الْمَسْمُوعُ سننے کی جگہ۔ کہتے ہیں۔ "هُوَ مِقِّي يَهْرَأِي وَمَسْمُوعٌ" وہ ایسی جگہ ہے کہ میں اس کو دیکھ بھی سکتا ہوں اور اس کی بات سن بھی سکتا ہوں۔ الْمَسْمُوعُ وَالْمُسْمَعَةُ کان۔ ج۔ مَسَامِعُ الْمُسْمِعُ فا۔ قید۔ الْمُسْمَعَةُ گانے والی۔ الْمُسْمَعُ مقید۔ السَّمْعَمُ شیطانی خبیث۔ سَمْعَنُ السَّمْعَنَةُ بہت سننے والی۔ اِسْمَعْدُ اِسْمَعْدَا ا۔ الْجَرْمُ زعم

کاسوجنا۔ الْمُسْمَعْدُ بھولا ہوا۔ بہت زور سے پکڑنے والا۔ سَمَقَ (ر) سَمَقًا وَسَمُوقًا۔ اَنْبَاتُ پودہ کا بڑھنا۔ دراز ہونا۔ صفت (سَامِقٌ وَسَمِيقٌ) السَّمَاقُ خالص۔ محض کہتے ہیں اُجْبِكَ حُبًّا سَمَاقًا یعنی میں تجھے نئے خالص محبت کرتا ہوں۔ السَّمَاقُ وَالسَّمُونُ ایک نہایت ترش پھل والا درخت۔ واحد (سَمَاقَةٌ) وَ سَمُوقَةٌ السَّمِيقُ بیل جو تنے کا جوا۔ السَّمِيقُ مِنَ الرِّجَالِ لمبا آدمی۔ اِسْمَقَرًا اِسْمَقَرًا۔ اَلْيَوْمُ دن کا سخت گرم ہونا۔ سَمَكَ (ر) سَمَكًا۔ الشَّيْءُ بلند کرنا سَمَكَ (ر) سَمَكًا وَسَمُوكًا وَ سَمَكًا (ر) سَمَاقَةً بلند کرنا۔ سَمَكَ۔ الشَّيْءُ چیز کو موٹا و دبیز کرنا۔ تَسَمَكَ۔ بلند ہونا۔ اِسْتَسَمَكَ۔ الثِّيَابُ کپڑوں میں سے لمبا کپڑا اختیار کرنا۔ مچھلی کھانا۔ السَّمَكُ مص۔ چھت یا چھت کی مرٹائی ہر ادبچی اور موٹی چیز کا قد و قامت۔ السَّمَكُ مچھلی۔ ج۔ سَمَاقٌ وَسَمُوكٌ وَ اَسْمَاقٌ واحد (سَمَكَةٌ) اِسْمَاقٌ چیز کے اٹھانے کا اوزار۔ ج۔ سَمَكٌ۔ مِنَ الزُّورِ ہنسی سے ملی ہوئی پسلی۔ اِسْمَاكَانِ دو ستارے ہیں، ایک کو يَمَاكُ رَامِعٌ کہتے ہیں اور دوسرے کو يَمَاكُ اَعَزَلُ۔ السَّمِيكَاءُ ایک مچھلی۔ السَّمَكُ مچھیرا۔

السَّمِيكُ وَالسَّمُوكُ لمبا۔ الْمَسْمُوكُ۔ مِنَ الْحَبْلِ مضبوط گھوڑا۔ الْمُسَمَاكُ خیمہ وغیرہ اٹھانے کی کڑی۔ الْمُسَمَكَاتُ وَالْمُسْمُوكَاتُ۔ السَّبْعُ ساتواں آسان۔ سَمَلُ (ر) سَمَلًا۔ عَيْنُهُ آنکھ پھوڑنا۔ الْحَوْضُ حوض کو کچھڑ سے صاف کرنا۔ بَيْنَهُمَا صلح کرنا۔ الدُّوْ دُول کا تھوڑا پانی دینا۔ سَمَلُ (ر) سَمُولًا وَسَمُولَةً وَسَمَلًا (ر) سَمَالَةً۔ الثَّوْبُ کپڑے کا پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ صفت (سَمِلٌ) سَمَلُ۔ الْحَوْضُ حوض کا تھوڑا پانی دینا۔ السَّوْصُ حوض کو کچھڑ وغیرہ سے صاف کرنا۔ فَلَانًا يَقُولُ کسی سے نرمی سے بات کرنا۔ اَسَمَلُ۔ الثَّوْبُ کپڑے کا پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ بَيْنَهُمَا صلح کرنا۔ تَسَمَلُ پانی تھوڑا پینا۔ النِّبِيذُ نمیدار بار پینا۔ اِسْتَمَلُ۔ عَيْنُهُ آنکھ پھوڑنا۔ السَّمَالُ آنکھیں پھوڑنے والا۔ السَّمَالُ پرانا بوسیدہ کپڑا۔ ج۔ اَسْمَالُ۔ حَوْضٌ میں بچا ہوا پانی۔ ثَوْبٌ سَمَلَةٌ وَسَمُولٌ وَسَمِيلٌ بچا پرانا کپڑا۔ السَّمَالُ پانی کے چشموں کا کپڑا۔ السَّمَلَةُ وَالسَمَلَةُ تھوڑا پانی۔ ج۔ سَمَلٌ وَ اَسْمَالٌ وَ سَمَالٌ وَسَمُولُ۔ السَّمَلَانُ مِنَ الْمَاءِ وَ النِّبِيذِ بقیہ پانی یا نمید۔ السَّوْمَلُ بچا پرانا کپڑا۔ السَّوْمَلَةُ چھوٹی پیالی۔ السَّمُولُ فراخ زمین۔ نرم مٹی کی زمین۔ تَسْمَلُجُ۔ اللَّبَنُ دودھ کو آسانی سے نکالنا۔



السَّمَلَجُ وَالسُّمَالَجُ - مَيْطَا دُودْ -
السَّمَلَجُ - بَيْطَرَا -

السَّمْلَقُ - بومار تجزین -
سَمِين (س) سَمْنَا و سَمَانَة - موٹا و
فربہ ہونا - صفت (سَامِن و سَمِیْن)
جہ سَمَان -

سَمَنَ دَن، سَمَنًا وَسَمَنَ - عَلَامَ -
 کھانے میں گھی ڈالنا - وَسَمَنَکَ -
 مڑا کرنا - سَمَنَ الْقَوْمَ - گھی کا
 توشہ دینا - سَمَنَ لَهُ - کسی کو
 بہت بخش دینا -

اَسْمَنَ - موٹا ہونا - بہت گھی والا ہونا -
 موٹے جانوروں والا ہونا۔ موٹا جانور
 خریدنا یا اس کا مالک ہونا یا اس کو
 بہہ کرنا - اَلْفَرْسُ - گھوڑے کو موٹا
 کرنا - اَلْخُبْزُ - روٹی کو گھی میں تر
 کرنا - اَلرَّجُلُ - کسی کو گھی کھلانا -
 تَسَمَّنَ - موٹا ہونا - شرافت و بھلائی نہ
 رکھتے ہوئے شرافت و بھلائی کا دم
 بھرنّا -

اِسْتَسْنَن۔ گئی مانگنا۔ کسی کو موٹا
پانا یا سبھنا۔ مثل ہے۔ اِسْتَحْمَنَتْ
ذَاوَدَ رَتَمَ نَے سوجے ہوئے کو
موٹا جان لیا۔ یعنی ظاہری حالت سے
دھوکا کھا گئے۔

السَّمْنُ - مع بگی - ج - اَسْمُنْ و
سُمُونْ و سُمَانْ - السَّمَانُ بگی
نیچنے والا۔

السُّمْنَةُ ۲۔ مٹا کرنے والی دوا۔ ایک گھاس جس کا دانہ فلفل سے مشابہ ہوتا ہے اور عورتیں اس کو مٹاپے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔

السَّامِيُّ. مَوْتًا - مِنَ الْكَلَامِ. يَكْزِرُو
گفتگو۔

السَّمِينَةُ - مُنْث السَّمِين - ج -

سَيِّمَانُ - اَرْضُ سَمِيْنَةٍ - دہ زمین
جس میں پتھر نہ ہوں :-

المُسْمِنُ - خلق مؤثما - طعامٌ مُسْمَنٌ
 ده کھانا ہو مؤثما اور فربہ کرے۔
 السَّمَانِي - طیر۔ واحد - (سَمَانَةٌ) ج۔
 سَمَانِيَاتٌ۔

السَّمْنَدُ جُوفِيٌّ - آسمانی رنگ کا۔
السَّمْنَدُ - آگ کا کپڑا۔
سَمْنَدُ (ف) سَمُوْهًا - حیران ہونا۔
الْفَرْسُ - گھوڑے کا دوڑنے میں
مکان کو نہ جانا۔

سَمَّاهُ - الْإِبِلُ - اُونٹوں کو بیکار چھوڑ
 دینا۔ صفت مفعولی۔ (سَمَّاهُ) -
 السَّامِدُ - حیران۔ ج۔ سَمَّاهُ -

السُّمِّيَّهِ - كَرَّهَ بَوَائِي - سَوَّجَ كِي كَرْنِيں جَو
آنکھوں کو دھاگوں کی طرح نظر آتی ہیں
تَرَمَرے - رَا السُّمَّةُ وَ السُّمِّيَّهِ وَ
السُّمِّيَّهِ وَ السُّبِّيَّهَاءُ وَ
السُّمِّيَّهَاءُ وَ هَكَو سَلَا۔

سَمَّيْجَ - كَلَامَةُ - جَهوٹ بولنا -
 الْحَبْلُ - رسی کو مضبوط بننا - الشيء
 بھیننا - الذَّرَاهِمَ - سک کو رواج
 دینا - الْيَمِينَ - سخت قسم کھانا -
 السُّهَاجُ - جھوٹ -

اِسْمُہْدُ - السِّمَامُ۔ کوہان کا موٹا ہونا
- السَّمُہْدُ۔ خشک سخت چیز۔
السَّمُہْدُ وَالسَّمُہْدُ۔ بڑے جسم
کا اونٹ۔

اسْمَهْدِي - سخت و سنگین - نیزہ کی طرح
 سیدھا ہونا - الظلام - بہت
 اندھیرا ہونا -
 السَّمْدِي - سخت و مضبوط نیزہ -

سَمَاءٍ مَوْسُومًا - بلند ہونا۔ اونچی ہونا۔
- البَصْرُ - اٹھنا۔ سموت
إِلَيْهِ بَصْرِيٌّ - میں نے اس کی طرف

نَظَرُ طَاهٍ إِلَى نَفْسِهِ تَسْمُوهُ إِلَى
مَعَالِي الْأُمُورِ اس کا نفس بلند
امور کی طرف مائل ہے۔ بلکہ بلند
کرنا۔ الْقَوَامُ شُكْرُكَ لِيْهِ جَانَا۔
(سَمَاءُ يَسْمُو سَمُوًا) الرَّجُلُ زَيْدًا
وِيزِيدًا کسی کا زید نام رکھنا۔
سَمِيَّ الرَّجُلُ زَيْدًا أَوْ يَزِيدًا۔
کسی کا زید نام رکھنا۔ الشَّارِعُ فِي
الْعَمَلِ کسی کا کام کے شروع میں اللہ
کا نام لینا۔

اسمعی - الشیخ - بلند کرنا۔ الرجل زیداً
 ویزید کسی کا زید نام رکھنا۔ کُ مِنْ
 بَلَدٍ اِلٰی بَلَدٍ - ایک شہر سے دوسرے
 شہر لے جانا۔ پہنچانا۔

تَسَافَى مُسَامَاةٌ - الرَّجُلُ - کسی سے فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ فَلَانٌ لَا يُسَامَى - فلاں سے فخر میں مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ تَسَافَى تَسَامِيًا - القوم - ایک دوسرے کے مقابل فخر کرنا۔ ایک دوسرے کو نام لے کر پکارنا۔ عَلَى الْخَيْلِ - گھوڑوں پر سوار ہونا۔

تَسْتَسْتِ - نام پانا۔ اِلٰی و بِالْقَوْمِ۔ قوم کی طرف منسوب ہونا۔

اِسْتَحْمَاءُ - الصَّائِدُ - شکاری کا
شکار کی جڑیں پنہنا - شکار کرنا - ۵
کسی کی زیارت کو جانا - کسی میں غم و بھلائی
معلوم کرنا -

اِسْتَسْمٰى اِسْتِسْمَاءَ۔ الرَّجُلَ كِسى کا نام دریافت کرنا۔

السَّامِيُّ: فَاجِرٌ - سَامُونٌ وَسَمَاءٌ مُرْتَضَاةٌ
سَامِيَةٌ - جَرَسَامِيَّاتٌ وَسَوَامٍ بَلَدَاوِيخُ
شَانُ وَشَوَكْتُ وَالْأَلَاءُ

السَّمَاءُ - آسمان - زمین کو گھیرنے والی فضا
 آسمانی - سر کے اوپر کی ہر ایک چیز -
 گھوڑے کی پیٹھ - ہر چیز کی چھت - بارش -

بادل گھاس، نیک و پاک ارواح کا
مکن۔ ج۔ سَمَاوَاتُ وَ سَمَوَاتٌ۔
وَسَمِيٌّ وَ سَمِيٌّ وَ سَمِيٌّ (و۔
السَّمَاءُ) گھر کا چھپر۔ وَ سَمَادَةٌ كُلُّ
شَيْءٍ بِرِجْزٍ كَابَعْدَ يَدَا نَجْمٍ۔

السَّمَاءُ۔ اچھی شہرت۔
الرَّسْمُ وَالرَّسْمُ۔ نام۔ ج۔ اَسْمَاءُ
وَ اَسْمَاءُ وَ اَسْمَاءُ وَ اَسْمَاءُ وَ اَسْمَاءُ۔

اسم کا ہنر و مصلیٰ بسمہ میں کتابت سے
ساقط ہو جاتا ہے اور بِسْمَلَةِ۔ بسم
اللہ الرحمن الرحیم۔ اِسْمُ الْجَلَالَةِ
باری تعالیٰ کا نام۔

السَّمُّ وَالسَّمُّ وَالسَّمُّ۔ اسم کے لغات۔
هَذَا السَّمُّ۔ یعنی یہ اس کا نام ہے۔

السَّيِّئُ۔ بلند، ہم نام۔ نظیر۔
السَّحَابَةُ۔ شکاری کی اونی جراب۔

المُسْتَنَّى۔ مفع۔ نام رکھا ہوا معلوم و معین
چیدہ آدمی۔

سَنَنَ (ن، سَنَنَ)۔ السَّيِّئِينَ۔ چھری کو
تیز کرنا۔ هَذَا السَّنَنُ عَلَى

الطعام۔ یہ چیز تم میں کھانے کی
اشتہا پیدا کرے گی۔ بھوک لگائے گی۔

۔ الرُّمَحَ نِزَہ میں پھل لگانا۔
الْأَسْنَانُ۔ دانتوں میں مسواک کرنا۔

الْعُقْدَةُ۔ گرہ کھولنا۔ الْإِبِلَ
اونٹ کو تیز ہانکنا۔ الرَّجُلُ نِزَہ مارنا

دانتوں سے کاٹنا۔ دانت توڑنا۔ بہت
تعریف کرنا۔ الْأَمْرُ بیان کرنا۔

آسان کرنا۔ جاری کرنا۔ الطَّرِيقَةُ
طریقہ اختیار کرنا۔ عَلَيْهِ السَّلَامُ

طریقہ مقرر کرنا۔ الطَّيْنُ مٹی کا برتن
بنانا۔ الشَّيْءُ۔ تصویر بنانا۔ الْمَاءُ

أَوِ التُّرَابُ۔ آہستہ آہستہ پانی یا مٹی
گرائنا۔ الْعَيْنُ الدَّمْعُ۔ آنکھ کا آنسو

بہانا۔ الرِّمِيَّةُ رَعِيَّتُهُ۔ رعیت کا

اچھی طرح انتظام کرنا۔ سَنَنَ فَلَانٌ
طَرِيقًا مِنَ الْخَيْرِ۔ فلاں نے بھلائی
کی ایک راہ کھولی۔ سَنَنَ الْأَرْضُ۔
زمین کی سبزی کا چر لیا جانا۔

سَنَنَ۔ السَّيِّئِينَ۔ چھری تیز کرنا۔
الرُّمَحَ نِزَہ میں پھل لگانا۔ الرُّمَحُ

لَاكِيَّةٌ۔ کسی کی طرف نِزَہ سیدھا کرنا
۔ الْقَوْلُ۔ بات کو زینت دینا۔ سَجَانَا۔

۔ الْأَسْنَانُ۔ مسواک کرنا۔
أَسَنَ۔ الرَّجُلُ۔ بوڑھا ہونا۔ الصَّبِيُّ

بچہ کا دانت نکالنا۔ أَسَنَ الْمَلِكُ
يَسَنَةُ۔ دانت اگانا۔ الْمَاءُ پانی

گرائنا۔ بہانا۔ الرُّمَحَ نِزَہ پر پھل
لگانا۔

أَسَنَ۔ الْمَاءُ۔ پانی کا گرائنا۔ الطَّرِيقُ
راستہ کا واضح کرنا۔ الْفَرَسُ۔

گھوڑوں کا آگے پیچھے دوڑنا۔ السَّرَبُ
سراب کا چمکنا۔ أَسَنَ إِلَهُ الْهَوَى

حَيْثُ أَرَادَ۔ اس کو اس کی خواہش
ہر طرف لے گئی۔ الرَّجُلُ ظَلال کر کے

دانتوں کو صاف کرنا۔ وَ سَنَنَ
يَسَنَتُهُ۔ کسی کے طریقہ پر عمل کرنا۔

کسی کی پیروی کرنا۔
أَسَنَسَنَ۔ عمر رسیدہ ہونا۔ الطَّرِيقَةُ

طریقہ اختیار کرنا۔ الطَّرِيقُ راستہ
کا آمد و رفت والا ہونا۔ الْعَيْنُ آنکھ

کے آنسو ہونا۔ يَسَيِّفُهُ۔ تلوار کو
حرکت دینا۔ بِالْشَيْءِ۔ تابعداری کرنا

السِّنُّ۔ ج۔ أَسْنَانُ وَ أَسْنَتُهُ وَ أَسْنٌ۔
دانت (مؤنث)، درانتی یا کنگھی وغیرہ

کا دندانہ۔ لسن کے سر پر کا دانہ۔
قلم میں تراشنے کی جگہ۔ پیٹھ کے مٹکوں

کا کنارہ۔ چرائی۔ ج۔ أَسْنَانُ
عمر مؤنث، هُوَ حَدِيثُ الْمِسِينِ

وہ نئی عمر کا ہے۔ هُوَ كَبِيرُ السِّنِّ

وہ بڑی عمر کا ہے، یعنی بوڑھا ہے۔ هُوَ
يَسَنُ فَلَانٌ۔ وہ فلاں کا ہم عمر ہے

السَّنَنُ۔ طریقہ۔ اِسْتَقَامَ فَلَانٌ
عَلَى سَنَنِ وَاجِدٍ۔ فلاں ایک ہی

طریقہ پر چمارا۔ أَمِنَ عَلَى سَنَتِكَ۔
تم اپنے طریقہ پر چلتے رہو۔ وَالسَّنَنُ

وَالسَّنَنُ وَالسَّنَنُ، مِنَ الطَّرِيقِ
کشادہ راستہ۔ بڑا راستہ۔

السَّنَةُ۔ سَنَنَ کا اسم مرہ۔ رتھ کی مادہ
چھتے کی مادہ۔

السَّنَةُ۔ خصلت۔ طریقہ، طبیعت، شریعت
چہرہ یا اس کی گولائی۔ ج۔ سَنَنُ۔

أَهْلُ السَّنَةِ۔ وہ لوگ جو خصلت
حضرت ابوبکر، عمر و عثمان کے قائل ہیں۔

السَّنِيَّةُ۔ مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ۔
سنت کی جانب منسوب۔ واحد (سُنِّيٌّ)،

السَّنَةُ۔ دو طرفی کھاڑی۔ الِيسَانُ
نِزَہ کا پھل۔ ج۔ أَسْنَتُهُ۔

الِيسَانُ۔ سان۔ السَّنُونُ۔ منجن۔ دانوں
کا برش۔

السَّنِينُ۔ سان پر تیز کیا ہوا۔ سان پر سے
گرا ہوا براہ۔ وہ زمین جس کی گھاس چر

لی گئی ہو۔ سَنِينُ الْمَرْءِ۔ ہم عمر، بھولی
مؤنث سَنِينَةُ۔ السَّنِينَةُ ایک

ہی رخ میں چلنے والی ہوا۔ لمبا اونچا ٹیلہ
ج۔ سَنَانٌ۔

الْمِسَنُ۔ چاقو چھری تیز کرنے کی سان۔
الْمِسَنُ۔ مِنَ الدَّوَابِّ۔ بوڑھا جانور

ج۔ مَسَانٌ۔
الْمَسْنُونُ۔ مفع۔ حَمَاءُ مَسْنُونٌ بد ہوار

کچڑ۔ رَجُلٌ مَسْنُونٌ الْوَجْهِ۔
کتابی۔ چمکیلے چہرہ والا۔ مَسْنَنٌ

الطَّرِيقُ۔ راستہ کا واضح حصہ۔
السَّنَابُ۔ شادید برائی۔ الِيسَابُ وَ

الِيسَابَةُ۔ لمبی پیٹھ اور پیٹ والا۔



السَّنْبُ - بہت دھڑنے والا۔
السَّنْبُ وَالسَّنْبَةُ وَالسَّنْبَةُ زَمَانٌ
کا ایک حصہ۔

السَّنْبُ وَالسَّنْبَابُ وَالسَّنْبَابُ وَ
السَّنْبُوبُ - غضبناک، بہت شریہ
چغھورہ، جھوٹا۔

السَّنْبَاذُ ج - سان کا پتھر۔
السَّنْبُوسُ وَالسَّنْبُوسُ سَمُوسہ۔

السَّنْبُوقُ - ڈونگا، چھوٹی کشتی۔
السَّنْبُكُ - گھڑ کا کنارہ۔ تلوار کا

کنارہ۔ خود کی چوٹی، بارش کا شروع۔
ہر چیز کا شروع۔ سخت اور بھر زمین۔

ج - سَنَابُكُ - طَلَبُ الرُّوقِ فِي
سَنَابِكِ الارضِ - روزی کی تلاش

زمین کے اطراف میں ہے۔
سَنَبَلٌ - النَّوْعُ - کھیتی کا بالیاں نکالنا۔

- الرَّجُلُ - کپڑا گھسیٹ کر چلنا۔
السَّنَبُلُ - مِنَ النَّوْعِ - گیوں یا جو کی

بالی۔ واحد سَنَبَلَةٌ ج - سَنَابِلُ وَ
سَنَابِلَاتٌ - ایک خوشبودار گھاس

السَّنَبَلَةُ - آسمان کے ایک برج
کا نام۔

أَسْنَتٌ - الْقَوْمُ - قوم کا قحط زدہ ہونا۔
سَنَتٌ - الْهَدَرُ - ٹانڈی میں زیرہ ڈالنا۔

سَانَحُوا - الْأَرْضَ - نباتات تلاش کرنا۔
عَامٌ دَسَنَتْ دَسِنَاتٌ وَ مَسِنَتْ

قحط کا سال - رَجُلٌ سَنَتٌ -
بے خیر آدمی۔

السَّنُوتُ وَالسَّنُوتُ - زیرہ، بعض کے
نزدیک شدہ پنیر۔

الْمُسْنَتُ - وہ محتاج و مسکین جس کے
پاس کچھ نہ ہو۔

سَنَجَرَنٌ (سَنَجَا) - الثَّوْبُ - کپڑے کو
اس کے رنگ کے علاوہ کسی رنگ

میں رنگنا۔

السَّنَا ج - چراغ کے دھوئیں کا دیوار وغیرہ
پر اثر (و السَّنِي ج - چراغ۔

السَّنَجَةُ - ترازو، ہاٹ، جہ - سَنَجَاتٌ
دکھ دخیل ہے،

السَّنَجَةُ - سفید و سیاہ رنگ۔
السَّنَابُ وَالسَّنَابُ - جو ہے سے بڑا

ایک جانور جس کی دم گھنے بالوں والی
اور اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی کھال

سے پوستیں تیار کرتے ہیں۔
السَّنَجُ ج - جھنڈا، جہ - سَنَاجِقُ -

سَنَجَرَنٌ، سَنَجَا وَ سَنَجَا وَ سَنُوحَا -
الْأَوْرُاقُ - کوئی کام پیش

آنا یا کوئی رائے سوچنا۔ لی الشَّعْرُ
شعر آسان ہونا۔ یکنڈا، اشارہ سے

سمجھانا۔ الرَّجُلُ عَنِ رَأْيِهِ - کسی کو
اس کی رائے سے پھیر دینا، بدلہ و علیہ

کسی کو تنگی میں ڈالنا، تکلیف پہنچانا۔
(سَنُوحَا وَ سَنَاجَحَ سَنَاجَا وَ

مَسَانَحَةً) الطَّيْرُ أَوْ السَّطَبُ -
پرندہ یا ہرن کا بائیں جانب سے دائیں

جانب گزرنا۔
كَسَنَ ج - مِنَ الرَّيْحِ - ہوا کی طرف

پیٹھ پھیرنا۔
تَسَنَحَكَ لَتَسَنَحَكَ - عَنْ كَذَا

جستجو کرنا۔
السَّنُ ج - مہم - برکت - مِنَ الطَّرِيقِ

درمیان فی راہ۔
السَّنَا ج - فَا - دائیں طرف سے بائیں کو

گزرنے والا۔ عرب سانجہ سے نیک
فال اور بارحہ سے بدشگون لیتے

ہیں۔ جہ - سَوَانِ ج -
السَّنِي ج - سَانِ ج - موتی - زیور - جہ

سَنُ ج -
السَّنَةُ ج - رات کو نہ سونے والا۔

سَنَجَرَنٌ، سَنُوحَا - فِي الْعِلْمِ -

علم میں پختہ ہونا۔
سَنَجَرَنٌ (سَنَجَا) - مَتَغِيرٌ ہونا - صفت

(سَنَجَرَنٌ) - مَوْتٌ - سَنَجَرَنٌ -
مِنَ الطَّعَامِ - بہت کھانا - الْفَمُ

منہ کا دانتوں سے خالی ہونا۔ آسَانُ ج -
دانتوں کی جڑوں کا تباہ ہونا۔

السَّنَجُ - اصل - مِنَ السِّنِّ - دانت
اگنے کی جگہ جہ - آسَانُ ج - سَنُوحُ ج -

سَنُوحُ النَّصْلِ - پھل کا تیر کے اندر
داخل کیا ہوا حصہ - سَنَجُ الْكَلِمَةِ

کلمہ کا ماخذ - سَنَجُ الْحَثِي - بنجار کا
جوش۔

السَّنَجُ - اَوْتٌ - السَّنَجَةُ وَالسَّنَاخَةُ -
بدبودار ہوا۔

سَنَدَرَنٌ، سَنُودٌ اَدَا سَنَدَنَدٌ وَ
نَسَنَدٌ - اَلْيَدِ - اعتماد رکھنا، بھروسہ

کرنا۔ سہارا لینا - سَنَدٌ فِي الْجَبَلِ -
پہاڑ پر چڑھنا - سَنَدٌ لِلْأَرْبَعَيْنِ -

چالیس برس کے قریب پہنچنا - سَنَدٌ
ذَنْبُ النَّاقَةِ - بٹنے میں اونٹنی کی دم

کا ادھر ادھر چوڑوں پر لگانا۔
سَنَدٌ - دھاری دار کپڑا پہننا - الشَّيْءُ -

سہارا دینا، مضبوط کرنا - سَنَدٌ
مُسَانَدَةٌ دَسَانَدٌ - شَعْرَةٌ وَ فِي

شَعْرَةٍ - شعر میں مختلف ردیف لانا۔
- الرَّجُلُ مَدْرَكُنَا - عَلَى الْعَمَلِ

بدلادینا۔ اَلْإِلَى الشَّيْءِ - سہارا دینا
أَسْنَدٌ - فِي الْجَبَلِ - پہاڑ پر چڑھنا۔

اَلْإِلَى الْجَبَلِ - پہاڑ پر چڑھنا۔
فِي الْعَدْوِ - دوڑنے میں کوشش کرنا۔

الْحَدِيثُ إِلَى خِلَانٍ - کسی کی طرف
منسوب کرنا۔ أَسْنَدُ إِلَى الشَّيْءِ -

سہارا دینا۔
السَّنَدُ - لُحْ سَنَدٌ - سَنَدِيٌّ - سندھ

کا باشندہ۔

السَّنَدُ: ایک قسم کی دھاری دار چادر۔ سہارا
قرض کا اثاثہ۔ دستاویز۔ جہ۔ اَسْنَادُ
السَّنَادُ۔ قافیہ کا ہر عیب جو ردی سے پہلے
ہو۔ ناقۃً سَنَادٌ۔ لمبی ٹانگوں کی
اونٹنی۔ دہلی۔ قوی۔
الْإِسْنَادُ۔ مص۔ علم منافرہ میں حوالہ دینا۔
جہ۔ اَسَانِيدُ۔ علم عربی میں دو کلموں
کے درمیان نسبت تامہ واقع کرنا مثلاً
ذِيْدٌ قَاتِلُهُ میں خبر کی نسبت بتلوا
کی طرف کرنا۔
السَّنَدَانُ۔ آبرن۔ نہائی۔ جہ۔ سَنَادِيْنُ
(کلمہ داخل ہے)
السَّنَدَانُ۔ بڑا مضبوط آدمی۔
السَّنْدَانَةُ۔ گدھی۔
السَّنْدِيَانُ۔ شاہ بلوط کا درخت۔ واحد
(سِنْدِيَانَةٌ)
السَّنْدِيدُ۔ تبتی۔ منہ بولا بیٹا۔
المُسْنَدُ۔ مِنَ الْحَدِيثِ۔ جس کی سند
اس کے قائل تک پہنچائی جائے۔ جہ
مَسَانِدُ وَمَسَانِيدُ۔ بنو حمر کا طرز تحریر
منہ بولا بیٹا۔ تبتی۔
المُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ۔ جس پر ٹیک لگائی
جائے، سر ہانا۔ پلنگ۔ جہ۔ مَسَانِدُ۔
خَوَجُوا مَسَانِدِيْنِ لوگ مختلف
بھنڈوں کے نیچے نکلے۔
المُسْنَدُ۔ جس پر اعتماد و بھروسہ کیا
جائے۔
السَّنْدُ أَوِ السَّنْدُ أَوْقٌ۔ سبک۔ جرأت
والا۔ پست قد۔ موٹے سراور پتلے جسم
والا۔ السَّنْدُ أَوْقٌ۔ رومال جو پگڑی کو
چکنائی سے بچانے کے لیے باندھا جاتا
ہے۔
يَسْنَدُ۔ جلدی کرنا۔ الْمُسْنَدُ سَرَقٌ
مص برعت۔ ایک درخت جس سے
تیروکان بناتے ہیں۔ ایک قسم کا پیمانہ۔

کے ہیں: اَلْكَتْمُ بِالسَّيْفِ كَيْلُ
السَّنْدَرَةِ: یعنی میں تم میں وسیع پیمانے
پر قتل و خونریزی پھیلا دوں گا۔
السَّنْدَرِيُّ۔ لمبے قد کا۔ ولیر مضبوط کان۔
نیسے رنگ کا نیزہ۔ شیر۔ تلوار وغیرہ کا
پھل۔ بڑی آنکھوں والا۔ عمدہ۔ روی۔
ایک بڑا پیمانہ (د) السَّنْدَرُ و
السَّنْدَرُ، دلیر۔
السَّنْدَرُوسُ۔ ایک قسم کا گوند۔ ایک
معدنی چیز جو کھریا کے مشابہ ہوتی ہے۔
السَّنْدُسُ۔ نہایت باریک و نفیس کپڑا۔
سَنَدَرَسُ، سَنَدَرَا۔ بدخلق ہونا۔
السَّنَدُوسُ۔ لوہے کا ہر ایک ہتھیار۔ زرہ
کے مانند ایک چمڑے کا لباس۔
السَّنَدُوسُ۔ پلا۔ سردار۔ دم کی جڑ۔ گردن
کا منکا۔ جہ۔ سَنَانِيْرُ۔ السَّنَارُ۔
پلا۔
سَنَسَنَتِ۔ الرِّيْحُ۔ ٹھنڈی ہوا چلنا۔
السَّنَسِينُ۔ پیاس۔ سینے کی ہڈیوں کا سرا
جہ۔ سَنَاسِينُ (د) والسَّنَسِينَةُ،
پیٹھ کے منکوں کا کنارہ۔
سَنَطَارِكُ سَنَاطَلَةٌ وَسَنَطَارُ (س) سَنَطَا۔
بے ریش ہونا یا ہلکی دائرہ والی ہونا
صفت (سَنَاطٌ وَسَنَاطٌ وَسَنُوطٌ)
جہ۔ سَنَطٌ أَسْنَطٌ۔
السَّنَطُ۔ ماتھے کا گٹھا۔ پہنچا۔
السَّنَطِيْرُ وَالسَّنَطُوْرُ۔ ستار کی قسم کا
ایک باجا جس کے تار تانبے کے
ہوتے ہیں۔
سَنَطَلُ۔ الرَّجُلُ۔ سر جھکا کر چلنا۔
السَّنَطَلَةُ۔ لمبائی۔ السَّنَطَالَةُ۔ سر
جھکائے ہوئے آہستہ چال۔
السَّنَطِيلُ۔ لمبا۔ دراز۔
المُسْنَطَلُ۔ مفع۔ بہت سست چال چلنے
والا کہ معلوم ہو، اب گرا۔ بڑے پیٹ

والا۔ بے ڈول۔
سَنَمُ رَفْنٍ وَسَنَمُ رَكٍ سَنَاعَةٌ و
سَنُوْعَا۔ خوبصورت نازک بدن ہونا۔
صفت (سَنِيْعٌ) مَوْنُثٌ سَنِيْعَةٌ۔
اَسْنَعُ۔ الغَلَامُ لڑکے کا دراز قامت و
حسین ہونا۔ الرَّجُلُ۔ خوب صورت
بچوں والا ہونا۔ ماتھے کے گٹے میں درد
ہونا۔ الشَّيْءُ۔ زیادہ کرنا۔
السَّنْعُ۔ گٹے کے مقام کی بریدگی۔ گٹے کا جوڑ
جہ۔ سَنَعَةٌ أَسْنَاعٌ۔
السَّنْعُ۔ خوبصورتی۔
الْأَسْنَعُ۔ لمبا۔ اونچی۔ بَلَدٌ هَذَا أَسْنَعُ
مِنْ ذَآلِكَ: یہ اس سے افضل ہے
اور اس سے لمبا۔ مَوْنُثٌ (سَنَعَا)
السَّنِيْعَةُ۔ پہاڑی راستہ۔ جہ۔
سَنَاعٌ۔
السَّنْعَبَةُ۔ نیولا۔ اوپر کے ہونٹ میں باطن
کی جانب اٹھا ہوا گوشت۔
سَنَفَتُ رَفْنٍ (ض) سَنَفَا۔ البَعِيْرُ اونٹ
پر تنگ کرنا۔ (النَّاقَةُ) اونٹنی کا اونٹوں
سے آگے نکلنا۔
اَسْنَفَتُ۔ البَعِيْرُ۔ اونٹ کا چلنے میں اپنی
گردن کو آگے نکالنا۔ النَّاقَةُ۔ اونٹنی کا
اونٹوں سے آگے نکلنا۔ الرِّيْعُ ہوا
کا تیز چلنا۔ البَرْقُ۔ بجلی کا نزدیک
معلوم ہونا۔ الْأَمْرُ۔ کسی امر کو مضبوط
کرنا۔ البَعِيْرُ۔ اونٹ پر تنگ کرنا۔
السَّنَفُ۔ وہ شاخ جس پر پتے نہ ہوں۔
دانوں سے خالی پھلی۔ پتا۔ جہ۔ سَنُوفٌ
السَّنَفُ۔ گیہوں اور جو میں پیدا ہونے والا
تلخ دانہ۔ جماعت۔ صفت۔ پھلی کا
کھوکھ۔ واحد (سَنَفَةٌ) جہ۔
سَنَفٌ۔ جہ۔ سَنَفَةٌ۔
السَّنِيْفُ۔ فرش کی گولٹ۔ اونٹ کے
مونڈھوں پر باندھا جانے والا کپڑا۔ جہ



سُنْتُ وَسُنْتُ دَاسُفَةُ.
 الْمُسْنَفَةُ مِنَ الْيَسِينِ خَشَكُ سَالِ.
 مِنَ الْأَرْضِ قَطْرُهُ زَيْنِ.
 يَسْنَفُ - الْبَعِيرُ - اَوْنُ كَاتِرُكَ - ج.
 سُنْتُ.
 الْمُسْنَفَاتُ - دَوَكُزِيَاں جن میں کنویں کی
 چرخى باندھی جاتی ہے۔
 الْمِسْنَفُ - وہ اونٹ جو اپنے زین کو آگے
 پیچھے کرتا رہتا ہو، جس کی وجہ سے تنگ
 کسٹ پڑے۔ ج۔ مَسْنِيفُ.
 سَنِقْ دَس، سَنَهَا، بد معنی ہونا بعض
 اس کو حیوانات کے لیے مخصوص کرتے
 ہیں،
 اَسْنَفَةُ - آسودہ حالی کا کسی کو آرام طلب
 بنا دینا۔
 السُّنْقُو وَالسُّنْقُوسُ - شکرے سے بڑا
 ایک شکاری پرندہ۔
 سَنِمَ دَس، سَنَمًا - الْبَعِيرُ - اَوْنُ کا
 بڑے کوٹان والا ہونا - الْبَنَتُ -
 پودہ کا شگوفہ دار یا بایوں والا ہونا۔
 سَنَمَ - الْكَلَاءُ الْبَعِيرُ - موٹے کوٹان
 والا ہونا - الْإِنَاءُ بَرْتَن بھرنہ۔
 الشَّيْءُ بَلَدُ كَرْنَا - اٹھانا - الْقَبِيرُ
 قبر کو کوٹان ناکرنا - اِلْمَكْيَالُ پیمانے
 کو بھر کر چوٹی دار کرنا۔
 اَسَمَ - الْكَلَاءُ الْبَعِيرُ - بمعنی سَنَمَ
 - الْمُدْحَاتُ دھواں اٹھنا -
 اَسَمَتِ النَّارُ - آگ کا اونچا شعلہ
 اٹھنا۔
 تَسَمَ - النَّاقَةُ - اونٹنی کے کوٹان پر
 سوار ہونا - الشَّيْءُ کسی چیز پر چڑھنا
 - قُلْنَا کسی کو غفلت میں پکڑ لینا۔
 - الشَّيْبُ کسی پر بڑھاپے کے
 آثار بہت ظاہر ہونا۔
 السَّيْمُ - مِنَ الْإِذِلِ - بڑے کوٹان

والا - مِنَ النَّبَاتِ - زمین سے
 اٹھا ہوا شگوفہ دار پودہ۔
 الْمَسَامُ کوٹان - ج۔ اَسْمَكَةُ - کہتے
 ہیں - فَلَانٌ سَمَامٌ قَوْمٌ فُلَانِ
 اپنی قوم کا بڑا آدمی ہے۔
 سَمَمَةُ - النَّبَاتُ - شگوفہ - چوٹی۔
 بَالِي - رَجُلٌ سَلِمٌ بَلَدٌ قَدَامِي -
 التَّسْنِيمُ - جنت کے ایک چشمہ کا نام۔
 الْمُسْتَمُ - مِنَ الْجِبَالِ - وہ اونٹ جس پر
 سواری نہ کی جائے۔
 الْمَسْمَارُ - چاند - چور - رات کو جاگنے والا۔
 السَّخْوَرَةُ - ایک قسم کی چھوٹی مچھلی جو
 نلک لگا کر خشک کی جاتی ہے۔
 سَيْلَةُ دَس، سَنَهَا - بہت سالوں والا ہونا
 صفت (سَنِقْ) - د - الطَّعَامُ
 اَوَالِ الشَّرَابِ - متغیر ہونا - بگڑ جانا۔
 سَانَهُ - الْوَجَلُ - ایک سال کا معاہدہ
 کرنا۔ سَاخَمَتِ الذَّخْلَةُ - کھجور کے
 درخت کا ایک سال بیج پھل لانا۔
 تَسَنَّهُ - بہت برسوں والا ہونا - الْخُبْرُ
 روٹی کا سڑنا۔ بدبودار ہونا۔ عِنْدَهُ
 کسی کے پاس سال بھر ٹھہرنا۔
 السَّنَهَاءُ - مِنَ النَّخْلِ - ایک سال بیج
 پھل لانے والا درخت خرما - خشک
 سالی والا - سَنَةُ سَنَهَاءُ وہ سال
 جس میں بارش نہ ہو، نہ پیداوار -
 السُّنْبَهَةُ - چھوٹا سال۔
 تَسَالَيْسُو سَنَوًا وَسَنَاقَةً وَسَنَوًا
 سَنَاقَةً - السَّحَابُ الْأَرْضُ بَادِلُ
 کازین کو سیراب کرنا - الْبَرَقُ
 بجلی کا چمکنا - الْبَابُ - دروازہ
 کھولنا - سَنَتِ النَّارُ - آگ کی
 روشنی کا بلند ہونا - السَّمَاءُ - آسمان
 کا برسنا - سَنَاعِلُ الدَّابَّةِ
 جانور پر پانی لانا - الدَّلْوُ - ڈول

کنویں سے کھینچنا۔
 سَانِي سَنَاءٌ وَمُسَانَاةٌ - الرَّجُلُ - کسی
 سے ایک سال کے لیے معاہدہ کرنا۔
 تَسَنَّى تَسَنَّى - الشَّيْءُ - چڑھنا - تَسَنَّتِ
 الْعُقْدَةُ - گرہ کھنڈا۔
 السَّنَةُ - سال - ج۔ سُنُونٌ وَسِنُونٌ
 دَسَنَوَاتٌ دَسَنَهَاتٌ - تصغیر۔
 سَنِيَّةٌ وَسُنِيَّةٌ وَسُنِيَّةٌ -
 نسبت کے لیے سَنَوِيٌّ وَتَسَنِيحٌ
 سَنَةُ سَنَوَاءُ - سخت سال۔
 الْمَسَا - ایک دست آور دوا۔
 السَّانِي - فَا - پانی لانے والا - ج۔ سَنَاقٌ -
 السَّانِيَّةُ - رِبْطٌ - دولاں - کنویں سے پانی
 لانے والی اونٹنی - ج۔ سَوَارِنُ -
 الْمَسْنُو وَالْمَسْنِي - مِنَ الْأَرْضِ - وہ
 زمین جس کو رِبْط سے مانی پلا جاتا ہے۔
 الْمُسْتَاةُ سِلَابٌ كَوْرٌ كَيْفَ وَهَلَا بَرْدُ -
 مُسْتَوَاتٌ وَمُسْتَيَاتٌ -
 سَنِي دَس، سَنَاءُ - بلند مرتبہ ہونا۔
 سَنِي رَضِ سَنِيًا - الْبَابُ - دروازہ کھولنا۔
 - الْعُقْدَةُ - گرہ کھولنا۔
 سَنِي تَسَنِيَّةٌ - الْأَمْرُ - سہل کرنا۔
 آسان کرنا۔
 سَانِي مُسَانَاةٌ وَسَنَاءُ - الرَّجُلُ -
 راضی کرنا۔ مدارات کرنا۔ طالبین ترقی کرنا۔
 اَسْنَى سَنَاءُ - الْبَرَقُ - بجلی کا کوندنا۔
 چمکنا - النَّارُ - آگ روشن کرنا۔
 - لَهُ الْحَايِزَةُ - اعلیٰ انعام دینا۔
 جَاوَزْتُهُ فَاسْنَى جَوَارِي - میں
 اس کا پر دوسی ہوا تو اس نے حق ہمایلی
 ادا کیا - الْقَوْمُ - قوم کا کسی جگہ
 اقامت پذیر ہونا۔
 تَسَنَّى - الْأَمْرُ - تیار ہونا - الرَّجُلُ
 آسانی و نرمی کرنا - الشَّيْءُ - متغیر ہونا
 - الْقَفْلُ قَفْلٌ كَهْلًا - الرَّجُلُ -

کسی کو راضی کرنا۔

السَّحْبَى - بجلی - ریشم - سنائی۔

السَّعَاءُ - مص - یعنی سخی - بلندی - روشنی۔

السَّيَا - شریف بلند شان والا آدمی۔

السَّيْنَى - بلند مرتبہ - مؤنث (سَدِیَّةٌ)۔

السَّيَايَةُ - تمام چیز ساری کی ساری۔

السُّنُوءُ - اباہل - واحد (سُنُوءَةٌ) و سُنُوءِيَّةٌ۔

سَسَبَ (ف) سَهَبًا - الشَّيْءُ - لینا۔

أَسْهَبَ - الكلام وفي الكلام - لمی

گفتگو کرنا - صفت (مُسَهَّبٌ وَمُسَهَّبٌ)

الرجل - بہت داد و دہش کرنا۔

حرم و لالچ کرنا - القوس - گھوڑے

کا فرائخ و فراخ قدم رکھنا - أَسْهَبُوا

الدَّابَّةَ - جانور کو چرنے کے لیے

چھوڑ دینا۔

أَسْهَبَ - عقل باقی رہنا یا بیماری یا

محبت و خوف سے رنگ بدل جانا۔

أَسْهَبَتِ الْبَشْرُ - کنویں کا زیادہ

گہرا ہونے کی وجہ سے اس کا پانی نہ

پاسکنا - صفت (سَهْبَةٌ و

مُسَهَّبَةٌ)۔

أَسْهَبَ - بہت بخشش دینا۔

السَّهْبُ - مص - بیابان - من الخيل

کشادہ قدموں سے تیز دوڑنے والا

گھوڑا - مَضَى سَهْبٌ مِنَ اللَّيْلِ -

رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔

السَّهْبُ وَالسَّهْبُ - من الأرض

کشادہ ہوا میدان - جہ - سُهْوَبٌ -

سَهَجَتْ (ف) سَهَجًا - الريح - ہوا

کا لگاتار تیز چلنا - الريح الأرض

ہوا کا زمین کو چھیل ڈالنا - الطيب -

خوشبو گھنار گڑنا - القوم

كَيْلَتْهُمْ - قوم کا رات بھر چت

رہنا۔

السَّاهِبُ - جہ - سَهَبٌ و السَّيْهَجُ و

السَّهْوُ و السَّيْهَوُجُ - من

الأرياح - سخت ہوا - آندھی - باد تند۔

المسَّحَجُ - تند ہوا کی گذرگاہ - وہ جگہ جہاں

تیز ہوا چلتی ہو۔

المسَّحَجُ - حق و باطل میں گفتگو کرنے والا

فصیح و بلیغ۔

سَهَدَ (س) سَهْدًا و تَسَهَّدَ - جاگتے

رہنا - کم نیند والا ہونا۔

سَهَّدَ - جگائے رکھنا - بیدار رکھنا۔

السَّهْدُ و السَّهَادُ - بے خوابی۔

السَّهْدُ - جاگنے والا - کم نیند والا۔

السَّهْدَةُ - بیداری - کہتے ہیں: مَا رَأَيْتُ

مِنْهُ سَهْدَةً - میں نے اس میں

بھلائی کی طرف توجہ اور رغبت نہیں

پائی۔

السَّهْوُ - بہت لمبا - نوجوان - غلام

سَهْوٌ - نازک اندام نوجوان لڑکا

هُوَ أَشَدُّ مِنْكَ رَأْيًا - وہ تم سے

زیادہ ہوشیار اور بیدار دماغ ہے۔

المُسَهَّدُ - مفع - کم خواب آدمی۔

سَهَرَ (س) سَهَرًا - رات بھر جاگتے

رہنا - صفت (سَاهِرٌ و سَاهِرَانٌ)

كَيْلَةُ سَاهِرَةٍ - رات جگنے کی رات۔

سَهَرَ الْبَرْقُ - بجلی کا رات کو چمکنا۔

أَسْهَرَهُ - کسی کو جگائے رکھنا - سَاهَرَهُ -

ساتھ ساتھ جاگنا۔

السَّهَارُ - بیداری - بے خوابی۔

السَّهْوُ - بیداری - زیادتی - پاند کا مالہ

پاند - دَخَلَ الْقَبْرُ فِي السَّاهْوَرَةِ

یعنی پاند گن میں آگیا - سَاهْوُرُ

عَيْنِ الْمَاءِ - چشمہ کا منبع۔

السَّهَارُ و السَّهْرَةُ - بہت جاگنے والا۔

السَّاهِرَةُ - مؤنث السَّاهِرُ - زمین یا

سطح زمین - ہمیشہ بننے والا چشمہ - پاند

الْأَسْهَرَانِ - آنکھ کی دو رگیں - ناک

کی دو رگیں۔

سَهَفَ (ف) سَهْفًا - الْقَيْلُ - قتل

کا نزع کی حالت میں بیقرار ہونا۔

سَهَفَ (س) سَهْفًا - سخت پیاسا ہونا۔

بلاک ہونا۔

أَسْهَفَهُ - کسی کو خفیف سمجھنا۔

السَّاهِفُ - فا - بلاک ہونے والا - نزع کے

وقت سخت پیاسا - سَاهِفُ الْوَجْبِ

متغیر چہرے والا۔

السَّهْفُ - پھل کے چھلکے۔

السَّهْفُ - تونس - وہ بیماری جس میں

سیرابی نہیں ہوتی - طَعَامٌ مَسْهَفَةٌ

بہت پانی پلانے والا کھانا۔

السَّهْوُ - بڑا جھوٹا - دراز پنڈلیوں والا۔

السَّهْوُ - کشادہ قدم والا۔

سَهَلَتْ (ف) سَهْلاً - الريح - ہوا کا

بہت تیز چلنا - الريح الثراب

عَنْ وَجْدِ الْأَرْضِ - ہوا کا زمین کی سطح

سے مٹی اڑانا - الشَّيْءُ - کسی چیز کا

گھٹنا - رُكْنَا -

سَهَكْتَ سَهْوًا - الدَّابَّةُ - جانور کا

بلکی چال چلنا۔

سَهَكَ (س) سَهْكَ - بدبودار ہونا۔

صفت (سَهَكٌ) کہتے ہیں: يَدِي

سَهَكَةٌ مِنَ السَّهَكِ - میرا ہاتھ پھلی

سے بدبودار ہے۔

السَّهَكُ و السَّهَكَةُ و السَّهْوَكَةُ - پسینہ

یا سرے ہوئے گوشت یا مچھلی کی بدبو۔

السَّهَكُ - بوبے کا رنگ - رِيحٌ

سَهَكَةٌ - سخت تند ہوا - جہ -

سَوَاهِكٌ و سَاهَكَاتٌ - رِيحٌ

سَهْوٌ و سَيْهَكٌ و سَيْهَوٌ

و مَسْهَكَةٌ - بہت تند ہوا۔

السَّيْهَكُ - ہوا کا اڑایا ہوا غبار۔



السَّهَّالُ وَالْمُسَهَّكُ - بت تیز گفتار والا۔ طرار۔ وَالْمُسَهَّكُ مِنَ الْخَيْلِ تیز رو گھوڑا۔
 الْمُسَهَّكُ وَالْمُسَهَّكَةُ - سخت تیز ہوا کی گزر گاہ۔
 سَهْلٌ دِكْ سُهُولَةٌ - المکان۔ نرم ہونا۔
 سَهْلٌ دِكْ سُهُولَةٌ وَسَهَالَةٌ - الامر۔ آسان ہونا۔ صفت (سَهْلٌ وَسَهْلٌ)۔
 سَهْلٌ - الامرُ لَهُ وَعَلَيْهِ - آسان کرنا۔ المَوْضِعُ - نرم کرنا۔
 سَاهِلَةٌ مُسَاهِلَةٌ - نرمی اور سہولت کا برتاؤ کرنا۔
 اسَّهَلَ - پہاڑ سے میدان کی طرف اترنا۔
 هُوَ الدَّوَاءُ - دوا کا پیٹ کو نرم کرنا دست لانا۔ الرجل - لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ الامرُ - آسان پانا۔
 اسَّهَلَ - الرجل - اسال والا ہونا۔
 تَسَهَّلَ - الامرُ آسان ہونا۔ مَا تَسَهَّلَ لِيْ اَنْ اَفْعَلَهُ - میرے لیے یہ کرنا آسان نہیں۔
 تَسَاهَلَا - ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ تَسَاهَلَ الامرُ عَلَيْهِ - کسی امر کا آسان ہونا۔
 اسَّهَلَ - المکان نرم سمجھ کر اقامت کرنا۔ اسَّهَلَ سَهْلَةً - آسان سمجھنا۔
 السَّهْلُ - نرم ہموار زمین۔ ج۔ سَهْلٌ وَسُهُولَةٌ - نسبت کے لیے سَهْلِيٌّ بَعِيرٌ سَهْلِيٌّ - نرم زمین میں چرنے والا اونٹ۔ سَهْلُ الْوَجْدِ - زساروں پر کم گوشت والا۔ سَهْلُ الْخُلُقِ - نرم خواہ نرم طبیعت والا۔ کہتے ہیں۔
 "أَهْلًا وَسَهْلًا" یعنی تم اپنوں ہی میں آئے نہ غیروں میں۔ تم نے نرم زمین

پر قدم رکھنا سخت زمین پر۔
 السَّهْلَةُ وَالسَّهْلُ - ریت کی طرح کی مٹی جس کو پانی بہا لاتا ہے۔
 الاسَّهَالُ - اسال۔ دست آنا۔
 السَّهْوُ - دست آورد۔ سَهِيلٌ ایک روشن ستارہ جو گرمی کے آخر میں طلوع کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ اس کی خاصیت سے گریہ مر جاتے ہیں۔
 اورین میں عمدہ چڑا تیار ہوتا ہے۔
 سَهَمَدَنٌ وَسَهَمَدَكْ سَهْمَوْمَةٌ وَسَهْمَوْمًا - دُبلے پن سے رنگ متغیر ہونا۔ وَجْهٌ تَيَوَّرَ پڑھانا۔
 سَهَمَةٌ - قرعہ اندازی میں غالب آنا۔
 سَهْمٌ - لُوكُنَا - سَاهَمَةٌ - قرعہ اندازی کرنا۔
 اسَّهَمَ - لَهُ فِي كَذَا - کسی کے لیے حصہ بٹھانا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ - قرعہ ڈالنا۔ فِي الْكَلَامِ - لمبی گفتگو کرنا۔
 صفت (مُسَهَّمٌ وَمُسَهَّمٌ) تَسَاهَمُوا اسَّهَمُوا - القوم قوم کا قرعہ اندازی کرنا۔ تَسَاهَمُوا الشَّيْءَ - کسی شے کو آپس میں بانٹ لینا۔
 السَّهْمُ - ج۔ سَهَامٌ جوئے کا تیر جس سے قرعہ ڈالتے ہیں۔ تیر۔ سَهْمٌ الرَّايِجُ ایک ستارہ۔ ج۔
 اسَّهَمُوا سَهْمَةً وَسَهْمَانٌ - حصہ السَّهْمَةُ - قرابت۔ تقسیم۔ حصہ۔
 السَّهْمُ - سورج کی کرنیں۔ سخت گرمی۔
 عقلاء حکماء - السَّاهِمَةُ مِنَ الْمُؤْتِي - دُبلے اونٹنی۔
 السَّهَامُ - لُوكِ غَرْمِي - گرمی کی شدت۔
 تَرْمَرٌ - یعنی ٹمڑی کے جانے کی طرح موسم گرما میں فضا میں نظر آنے والی چیز۔ اونٹوں کی بیماری۔

السَّهَامُ - لاغری کے ساتھ رنگ کی تبدیلی۔ اونٹوں کی بیماری۔
 السَّهْمِيْمُ - حصہ دار۔ شریک۔
 الْمُسَهْمُ - لاغر۔ متغیر اللون۔ دوغلا گھوڑا۔
 الْمُسَهْمَةُ - مِنَ الْثِيَابِ - دھاری دار کپڑا۔
 سَهَا يَسْهَوُ سَهْوًا وَسَهْوًا - فِي الامر وَعَنِ الامر - غافل ہونا بھولنا۔
 دل کا دوسری طرف پھر جانا۔ صفت (سَاهٍ وَسَهْوَانٌ) - إِلَيْهِ - پست نگاہ سے دیکھنا۔
 سَهْوٌ يَسْهَوُ سَهَاوَةً - الفرس - گھوڑے کا جلد رام ہو جانا۔ صفت۔
 رَسَهْوٌ اسَّهَى - الرجل - سَهْوَةٌ - بنانا۔
 سَاهَى - الرجل فِي الْمَعَاشِرَةِ - نرمی کرنا خوش خلقی سے برتاؤ کرنا۔ هُوَ غافل کرنا۔ استہزاء کرنا۔
 سَهَّاهُ - فربان میں گرم کر کے خشک کرنا۔
 السَّهْوُ - مص۔ سكون - نرمی۔ اَفْعَلُهُ سَهَّوًا رَهْوًا - اس کو ہلاتا فٹنے کے خود بخود آسانی سے کرو۔ مَا سَهَّوُ صاف مقطر پانی۔ جَبَلٌ سَهْوٌ - سدھا ہوا میٹھ اونٹ۔ امْرُؤٌ سَهْوٌ - نرم کام۔ رِيحٌ سَهْوٌ - نرم ہوا۔ ج۔ سَهَّاهُ - السَّهْلِي وَالسَّهْلَا - بَنَاتُ نَعِيشٍ - سفری میں ایک چھوٹا ستارہ۔ جب کسی سے کوئی سوال کریں اور وہ اس کا بے جوڑ اور بے تعلق جواب دے تو کہتے ہیں "أَيْيَهَا السَّهْلِي وَتَرْيُنِي الْقَمَرُ"۔
 السَّهْوُ وَالسَّهْوَاءُ - رات کا ایک حصہ۔ السَّهْوَةُ - مؤنث السَّهْو - سَهَّاهُ کا اسم مرؤہ۔ ج۔ سَهَّاهُ - الماری۔ سلاخچہ



کھڑکی۔ صحن کے سامنے کا پردہ۔ روشن دان
پالی کے سامنے کا خیمہ۔ پتھر کی چٹان۔
پاکی۔ نرم کان۔
الساهی۔ فاکتے ہیں۔ بے غیر سہ
رایہ۔ ہلکے نرم رفتار کا اونٹ۔ جہ۔
جہال سواہ رواہ۔
الاساهی۔ الوان۔ رنگ (اس کا مفہوم نہیں)
تھوک۔ بچھاڑنا۔ ہلاک کرنا۔
تسھوک۔ بچھڑنا۔ ہلاک ہونا۔ واپس ہونا
آہستہ چلنا۔
ساع یسوع سواع۔ الشیء۔ قبیح
ہونا۔ برا ہونا۔
ساع یسوع سواع وسواع وسواع
وسواع وسواع وسواع وسواع
مساع وساع وساع وساع
مساع وساع وساع وساع
مساع وساع وساع وساع
کنا۔ بے جاسلوک کرنا۔ یہ کٹنا۔
بدگمانی کرنا۔
سواع تسوئے وتسوئے۔ خراب کرنا۔
فساد کرنا۔ سواع علیہ عملہ۔
الزام دینا۔ عیب لگانا۔ ملامت کرنا۔
سزائش کرنا۔
اساع اساع۔ الشیء۔ خراب کرنا۔
بگاڑ دینا۔ الیہ کسی کے ساتھ
برائی کرنا۔ بے النطق۔ بدگمانی کرنا۔
السوع۔ مص۔ رجل سوع۔ بدکار آدمی۔
والسوع۔ فساد۔ آگ۔ آنکھ کی کمزوری۔
السیعی۔ برا۔ قبیح۔
السیعی۔ مؤنث السیعی۔ بدی خطا کا
جہ۔ نسیئات۔
السوع۔ بے حیائی۔ بری خصلت۔ شرگاہ
جہ۔ سوعات۔
الاسوع مؤنث سوعی۔ سب سے
برا۔ بدشکر۔ قبیح۔
السوعی۔ دوزخ کی آگ

السوع۔ بری عادت۔ بدشکل عورت۔
المساع۔ برا کام یا بری بات۔ جہ۔
مساعی۔ المساعی۔ عیوب و نقائص
ساع یسوع سواع وسواع وسواع
آہستہ آنا جانا۔
سوع وسع۔ الکرم ونحوہ او
علی الکرم۔ انکور کی بیل پر بار لگانا۔
السیاع۔ دیوار۔ انکور وغیرہ کی بیل کی بار۔
جہ سیاجات واسوحت وسوحت۔
الساع۔ ساکھو کا درخت۔ جہ۔ سیجات
واحد ساجت۔ کتادہ۔ گول چادر۔
کساع مسوحت۔ گول چادر۔
الساحت۔ گوشہ کنارہ۔ گھروں کے بیچ کا
چوک۔ جہ۔ ساع وسوحت و
ساحات۔
ساع یسوع سواع وسوحت۔ فی
الطین کچر میں دھنس جانا۔ فی
الماء پانی میں بیٹھ جانا۔ (ساحت)
بھٹا الارض۔ سوخت سوخت
وسوختا۔ زمین کا کسی کو اپنے اندر
نکل لینا۔
السواح والسواح والسواح
السواح۔ دلدل۔ بہت کچڑ۔
ساد یسود سیاد وسودا و
سودا وسودا وسودا وسودا
شریف ہونا۔ بزرگ ہونا۔ قوم
قوم کا سردار ہونا۔ نشان و شرف
میں کسی پر غالب آنا۔ صفت (سائد)
جہ۔ سادۃ۔ جہ۔ سادات۔
الرجل کسی سے راز کی بات کرنا۔
سود یسود سودا و اسود
اسود ادا واسود اسود ادا۔
سیاہ ہونا۔
سود۔ دلیر ہونا۔ سردار بنانا۔
الشیء۔ کالا کرنا۔ الرجل۔ سردار

کو قتل کرنا۔
سواد کسی کے ساتھ کرو فریب کرنا۔
رات کی تاریکی میں ملنا۔ سرداری یا سیاہی
میں غالب آنا۔ پوشیدہ کلام کرنا۔
سواد الاسد۔ شیر کو بٹھانا۔
اسودت اسواد او اسادت اسادۃ
المراۃ۔ سیاہ رنگ کا بیٹا جتنا۔
سردار جتنا۔
تسود۔ شادی کرنا۔ سردار ہونا۔ کالا ہونا۔
استاد۔ القوم۔ قوم کے سردار کو قتل کرنا
فی بنی فلان۔ قوم کے سردار کی
رولک سے نسبت چاہنا۔
السود۔ سیاہ پتھروں والا ہموار میدان۔
جہ۔ اسواد۔ ایک قطعہ (سودۃ)
السود۔ مصر۔ سرداری۔ ایک قسم کی نبات۔
السواد سیاہی۔ وجود۔ جہ۔ اسودۃ
جہ۔ اسواد۔ بہت مال۔ بڑی تعداد
سواد البلد۔ شہر کے ارد گرد کی
بستیاں۔ سواد اللیل۔ پوری رات
سواد الناس۔ عام لوگ۔ سواد
القہسکر۔ فوج کے اسلحہ و سامان وغیرہ
سواد العین۔ آنکھ کا سیاہ حصہ۔
پتلی۔ سواد القلب۔ دل کا درمیان
دل کا سیاہ نقطہ۔
السواد۔ پوشیدہ گفتگو۔ دانتوں کی بیماری
رنگ کی زردی۔
السوادۃ والسودانۃ۔ ایک قسم
کی چڑیا۔
السودان۔ سلطان کا باشندہ۔ واحد
(سودان)۔ حبشی لوگ۔
السید۔ بھڑیا بشیر۔ جہ۔ سیدان۔
السیدۃ۔ بھیسڑیے کی مادہ۔
السیدۃ۔ بھیسڑیا۔
السید۔ سردار۔ جہ۔ اسیدۃ و سادۃ
وسیاد۔ حضرت فاطمہؑ کی اولاد اور



<p>ثالثا۔ آسَافُ إِسَافَةٌ۔ مال ہلاک ہونا۔ اولاد مرنا صفت (مُسیفٌ) (اولاد) (مُسَافٌ) آسَافَةُ اللَّهِ۔ ہلاک کرنا۔ سَوَفَ۔ مبنی برفتح۔ یہ مضارع کہ زمانہ استقبال کے لیے خاص کرتا ہے اور حرف "سین" سے اس کا زمانہ لمبا ہوتا ہے کہتے ہیں۔ "هُوَ يَقْتَاتُ السَّوْفَ" وہ امیدوں پر چیتا ہے۔ السَّائِفَةُ۔ باریک ریت۔ ریتی اور سخت زمین کے درمیان کی زمین۔ السَّوْفُ وَالسَّوْفُ۔ جانوروں کی بیماری مری۔ آسَافٌ حَتَّى مَا يَسْتَكِي السَّوْفُ یہ اس شخص کے حق میں بولتے ہیں، جو سختیوں کا خوگر ہو گیا ہو۔ السَّافُ وَالسَّافَةُ۔ گارے یا اینٹوں کا رواج۔ ج۔ اَسْفُتٌ وَسَافَاتٌ۔ السَّافَةُ وَالسَّوْفَةُ۔ ریتی اور سخت زمین کے درمیان کی زمین۔ ج۔ سَوَفٌ وَسَوَفٌ۔ الْمَسَافَةُ وَالْمَسَافُ۔ ج۔ مَسَاوِفُ و (السَّيْفَةُ) دوری۔ الْمَسَافُ۔ ناک۔ الْمُسَيَّافُ۔ وہ عورت جس کا بچہ مر گیا ہو۔ الْمُسْتَاوُفُ۔ مساف طے کرنے والا۔ سو گھنے کی جگہ۔ الْمُسَوَّفُ۔ ماہر، خود مختار۔ سَاقٌ يَسُوقُ سَوْقًا وَسَيَّاقًا وَسَيَّاقَةً وَمَسَاقًا وَسَاقًا۔ اسْتِيَّاقًا۔ الماشية۔ جانور کو پیچھے سے ہانکنا۔ صفت (سَائِقٌ) ج۔ سَاقَةٌ و سَوَاقٌ وَسَائِقُونَ۔ صفت مفعولی۔ (مَسُوقَةٌ) سَاقَةٌ مَسَاقٌ غَيْرُهُ۔ اس کے ساتھ غیر کا سا معاملہ کیا۔ سَاقُ الْحَدِيثِ۔ بیان کرنا۔</p>	<p>ریت گھڑی۔ السَّاعَةُ السَّاعِيَّةُ دھوپ گھڑی۔ ج۔ سَاعَاتٌ و سَاعٌ۔ سَاعَةٌ سَوَاعًا۔ سخت کٹھن وقت۔ رَجُلٌ مَسِيحٌ وَمَسِيحٌ بِفَضْلِ خَرِجِ مال کو ضائع کرنے والا۔ سَاعٌ سَوَاعًا وَسَوَاعًا وَسَوَاعًا۔ الْأَمْرُ جَائِزٌ هُنَا۔ صفت (سَائِعٌ) - الشَّرَابُ۔ آسانی سے گلے سے اترنا۔ صفت (سَائِعٌ) وَسَائِعٌ و السَّوْعُ۔ سَاعٌ يَسُوعٌ سَوَاعًا وَسَاعٌ يَسِيْعٌ و سَيِّعًا۔ الشَّرَابُ۔ خوشگوار کرنا۔ (سَاعًا) زیادہ بہتر ہے۔ سَوَاعٌ۔ الْأَمْرُ جَائِزٌ کرنا۔ لے کر گنا دینا۔ کسی کے لیے خاص کرنا۔ آسَاعٌ۔ الطَّعَامُ أَوِ الشَّرَابُ۔ خوشگوار بنانا۔ اسْخِرْ لِي غَضَبِي۔ مجھے مہلت دو۔ آسَوْعٌ إِسْوَاعًا۔ الصَّبِيُّ أَخَاكَ۔ ساتھ ساتھ پیدا ہونا یا ایک کا دوسرے کے بعد پیدا ہونا۔ صفت مذکر مؤنث (سَوْعٌ وَسَوَاعَةٌ وَسَيِّعٌ) إِسْتَاعَ۔ الشَّرَابُ۔ خوشگوار پانا۔ السَّيِّعُ۔ مِنَ الشَّرَابِ۔ خوشگوار۔ السَّوَاعُ۔ حلق کے پھندے کو دور کرنے والی شے۔ سَافٌ يَسُوفُ وَيَسَافُ سَوْقًا۔ المالُ ہلاک ہونا جانوروں میں مری پڑنا۔ سَافٌ يَسُوفُ سَوْقًا۔ عَلَيْهِ۔ مہر کرنا۔ وَاِسْتَاَفَ اسْتِيَّاقًا۔ الشَّيْءُ۔ سو گھنا۔ سَوَفَةٌ۔ ثالثا۔ بار بار کہنا کہ عنقریب کروں گا۔ كَالْأَمْرِ۔ برا اختیار دینا۔ سَاوَفَةٌ مَسَاوَفَةٌ۔ سو گھنا۔ بھید بھانا</p>	<p>السَّوْسُنُ وَالسَّوْسُنُ وَالسَّوْسَانُ۔ ایک نوشہوار پلٹی۔ واحد (سُوسَنَةٌ) ج سَوَاسِينُ۔ سَاقَةٌ يَسُوطُ سَوْطًا۔ کوڑے مارنا۔ الشَّيْءُ۔ مخلوط کرنا۔ الْحَوْبُ۔ جنگ برپا کرنا۔ الْأَمْرُ۔ تہ و بالا کرنا۔ سَوَاطِءٌ نَفْسُهُ۔ جی مٹلانا۔ سَوَاطِ الْأَمْرِ۔ ثالثا۔ الْحَوْبُ۔ جنگ شروع کرنا۔ برپا کرنا۔ اسْتَوَاطُ۔ الْأَمْرُ پیچیدہ ہونا گڑبڑ ہونا۔ السَّوْطُ کوڑا۔ چابک۔ ج۔ اسَواطٌ وَسَيَّاطٌ نسیب متقی۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ السَّيَّاطُ۔ گندنا کی شاخیں۔ السَّوْاطُ۔ کوڑا۔ کھنڈ۔ السَّيَّامِي۔ السَّوْاطُ۔ وہ گھوڑا جو بغیر چاکہ کے نہ چلے۔ (وَالسَّوْطُ) وہ لکڑی وغیرہ جس سے ایک چیز کو دوسری چیز میں ملایا جائے۔ السَّيَّاطُ۔ حوض کے پینڈے میں بجا ہوا پانی۔ سَوَاطِرُ۔ بمعنی سَيَّطَرُ۔ سَاعٌ يَسُوعٌ سَوَاعًا۔ ضائع ہونا۔ سَاعَتِ الْإِبْلِ۔ اونٹوں کا بغیر چرواہے کے آزادی سے چرنا۔ سَادَعَةٌ مَسَاوَعَةٌ وَسَوَاعًا۔ گھٹے بھر کے لیے معاملہ کرنا۔ الْوَجْلُ۔ ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل ہونا۔ سَاعٌ إِسَاعَةً۔ الشَّيْءُ۔ بیکار چھوڑنا۔ ضائع کرنا۔ آسَوْعٌ۔ إِسْوَاعًا۔ ایک گھٹے موخر ہونا۔ ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل ہونا۔ السَّوْعُ۔ وَالسَّوَاعُ۔ رات کا ایک حصہ۔ السَّائِعُ۔ ہلاک ہونے والا۔ ج۔ سَاعَةٌ۔ السَّاعَةُ۔ گھنٹہ۔ موجودہ وقت۔ کہتے ہیں۔ رَقَضَتْنِي حَتَّى السَّاعَةَ۔ میرا حق مجھ کو ابھی دو۔ گھڑی۔ السَّاعَةُ الرَّصْلِيَّةُ</p>
--	--	--



سَاقَهُ يَسُوقُهُ سَوْقًا وَسَبَاقًا - پندلی پر مارنا۔ سَاقُ إِلَيْهِ الْمَالُ - مال بھیجنا۔ پیش کرنا۔ مِنْ إِمْرَأَتِهِ - عورت کو مہر دینا۔ الْمَوْلِيُّ نَفْسَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ - وصیت کو علی الجہول۔ جان کنی شروع ہونا۔ سَوْقٌ يَسُوقُ سَوْقًا - خوبصورت اور موٹی پندلی والا ہونا۔ سَوْقٌ - النَّدَى - پودے کا تنہ دار ہونا۔ هَ الْأَمْرُ كَيْسِي كَوَامِرَ كَامِتَارَ كَرْنَا - کام کسی کے سپرد کر دینا۔ الْمَاشِيَّةُ - مویشی کو پیچھے سے ہانکنا۔ سَاقَهُ - ہانکنے میں فخر کرنا۔ آسَاقَهُ إِسَاقَةً وَإِسْتِاقَةً - الْمَاشِيَّةُ - ہانکنے کے لیے مویشی دینا۔ تَسَوْقُ - غریب و فروخت کرنا۔ تَسَادَقَتْ - الْمَاشِيَّةُ - قطار میں چلنا۔ چلنے میں بھیڑ کرنا۔ إِنْسَاقٌ - ہانکا جانا۔ الْإِبِلُ - اونٹوں کا قطار میں چلنا۔ السَّاقُ - پندلی (مومنٹ)۔ ج۔ سَوْقٌ وَبَسِيقَانِ وَأَسُوقٌ - سَاقُ الشَّجَرَةِ - درخت کا تنہ۔ سَاقُ الْحَمَامِ وَالْغُرَابِ - دو پودے ہیں۔ سَاقُ حُجْرٍ - نرقری۔ كَشَفَ الْأَمْرُ عَنْ سَاقِهِ - یعنی معاملہ سخت و سنگین ہو گیا۔ قَامَتِ الْحُبُّ عَلَى سَاقٍ - جنگ تیز ہو گئی۔ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ - عورت کے لگاتار تین بیٹے ہوئے۔ السَّاقَةُ - جلو۔ فوج کا پچھلا حصہ۔ السُّوقُ - بازار (مومنٹ)۔ کبھی مذکر بھی آتا ہے۔ ج۔ أَسْوَاقٌ - سُوقُ الْحَرْبِ - میدان جنگ۔ السُّوقُ - پندلی کی لمبائی۔

السُّوقَةُ - رعیت۔ غلام۔ (مومنٹ مذکر واحد جمع) السَّيْقُ - مِنَ السَّكَابِ - وہ بادل جس کو ہوا اڑا لائے۔ السَّيْقَةُ - وہ مویشی جن کو دشمن ہانک لے جائے۔ ج۔ سَيَاقٌ وَسَيْقَاتُ الْمَرْءِ سَيْقَةُ الْقَدَرِ - آدمی قضا و قدر کا فرمانبردار ہے۔ السَّيْقُ - سَتْرٌ - ج۔ أَسْوَاقُهُ - شراب۔ السَّيَاقُ - مہر۔ عورت کا مہر۔ سَاقُ الْكَلَامِ - اسلوب کلام۔ وَقَعَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي سَيَاقِ الْكَلَامِ - یہ عبارت سلسلہ کلام میں آگئی۔ السَّوَاقُ - ہانکنے والا۔ سَتْرٌ - سَتْرِيْنَا - والا۔ الْأَسْوَاقُ - لمبی پندلیوں کا۔ مومنٹ۔ سَوْقَاءُ - ج۔ سَوْقٌ۔ السَّوَاقُ - لمبی پندلیوں والا۔ تنے پر قائم پودا۔ الْمُسَوْقُ - وہ اونٹ جس کی اوٹ میں شکار کو دھوکا دیں۔ الْمُنْسَاقُ - تابع۔ قریب۔ لمبی ڈھولان والا پہاڑ۔ سَاكَ يَسُوكُ سَوْكًا وَسَوْكٌ - الشَّيْءُ - لٹنا۔ رگڑنا۔ اسی سے ہے سَوْكٌ الْإِنْسَانُ بِالْعَوْدِ - اس نے دانتوں کو کلائی سے رگڑا۔ مَسَاكٌ كِي - سَاكَ سَوَاكًا وَتَسَادَكَ - آہستہ چلنا۔ کمزوری سے لٹکھڑاتے ہوئے چلنا۔ تَسَوَكَ تَسَوَكَ وَاسْتَاكَ - اسْتِثْيَاكَ - مَسَاكٌ - کرنا۔ السَّوَالُ - مص۔ ج۔ سَوْكٌ - وَ (السَّوَالُ) - ج۔ مَسَاوِيكٌ - مَسَاكٌ - مسواک۔

سَالَ يَسَالُ سَوَالًا وَسَوَالًا - ہانگنا۔ پوچھنا۔ سَوَالٌ يَسْأَلُ سَوَالًا - پیٹ کا ناف کے نیچے سے ڈھیلا ہونا۔ صفت (سَوَالٌ) مومنٹ۔ سَوَالٌ - ج۔ سَوَالٌ سَوَالٌ - لَدَةُ الشَّيْطَانِ - گمراہ کرنا۔ مَحْلَانَا وَسَوَلْتُ لَدُنْ نَفْسِي كَذًا - اس کے نفس نے اس کو مزین کیا۔ تَسَوَّلَ - الْبَطْنُ - پیٹ کا ڈھیلا ہونا۔ السُّوَلَةُ - بہت سوال کرنے والا۔ السُّوَالُ - مومنٹ اسَوَالٌ - بڑا ڈول۔ السَّوَالُ - برابر کا۔ کہتے ہیں "أَنَا سَوَالُكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ" - میں اس معاملہ میں تمہارا شریک ہوں۔ سَامٌ كَيْسُومٌ سَوْمًا وَسَوْمًا - السِّلْعَةُ - سامان کو فروخت کرنے کے لیے پیش کرنا اور اس کی قیمت بتانا۔ الْمُشْتَرَى - السِّلْعَةُ - بھاؤ کرنا۔ سَامَتِ الْمَاشِيَّةُ - مویشی کا چراگاہ کو جانا۔ سَامَتِ الْأَمْرَ - کسی کو کسی کام کی تکلیف دینا۔ سَامَتِ حَسْبُكَ ذَلِيلٌ كَرْنَا - خوار کرنا۔ السَّطَرُ عَلَى الشَّيْءِ - پرندہ کا کسی پر منڈلانا۔ چکر کاٹنا۔ الْوَيْجُ - ہوا کا چلنا۔ سَامٌ نَاقَتَانِ عَلَى الْخَوْصِ - اونٹنی کو حوض پر لانا۔ سَوْمَتُكَ - الْأَمْرَ - کسی کام کی تکلیف ڈالنا۔ هَذَا فِي مَا يَمْلِكُكَ - پورا اختیار دینا۔ حاکم بنانا۔ هَذَا نَا - کسی کو آزادی دے کر اس کی مرضی پر چھوڑنا۔ مثل ہے عَبْدٌ وَسَوْدٌ - آزاد چھوٹا ہوا غلام جب کسی کینہ کو پوری آزادی دے دی جائے تو اس کے حق میں یہ مثل بولی جاتی ہے۔ الْعَيْلُ گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑنا۔ عَلِيْجُحْ - لوٹ ڈال کر خدا دھیلا نا۔ الْغَرَسُ - گھوڑے پر



وان لگانا۔

سَاوَمَ سَوَامًا وَمَسَاوَمَةً - بِالْمِثْلَةِ -

سامان کا بھاؤ تاؤ کرنا۔

تَسَاوَمًا - الْمِثْلَةُ - سودا کرنے میں جھگڑنا۔

- فِي الْمِثْلَةِ - سامان کا بھاؤ تاؤ کرنا۔

اَسَامَ اِسَامَةً - الْمَا يَشْتِيهِ - مولشی کر

پراگاہ کی طرف لے جانا۔ اَلْيَشِيهِ

بِبَصَرِهِ - نَظَرًا اِلَا -

اِسْتَامَ - فَلَانَا الْمِثْلَةَ - سامان کی

قیمت دریافت کرنا۔ بَحَا - سامان کو

زیادہ قیمت پر فروخت کرنا۔

تَسَوَّمَ - نِشَان لگانا۔

السَّامُ - مَوْت، بَأْس، نَزْكَل، وَاحِد

رَسَامَةً وَدَالِ السَّامَةِ مَوْت، سَوْنِ

یا چاندی کا ٹکڑا۔ کُنُوس کے اوپر کا گڑھا

جہ - سَيِّحٌ -

الْيَسِيمَةُ - السُّومَةُ وَالْيَسِيَاءُ وَالْيَسِي

نَافِ، عِلَامَت، اَشْكَال، وَهِيَّت، کتے

يَرْبِيهِ سَوْمَةً الصَّبَاحِ وَيَسْمَنُهُ

اس میں صلاحیت کی علامت ہے۔

الْيَسِيَاءُ وَالْيَسِيَاءُ - نِشَانِ خَوْبُورَتِ

السَّائِيحُ - فَا - خَوْبُورَتِ سے چلنے والا۔

چرواہا۔

السَّامَةُ وَالسَّوَامُ - چرنے والے پوشی

اَوْنُ - جہ - سَوَائِيحُ

السَّوَامُ - تیزی سے گزنا۔

الْمَسَاوِيحُ - وَلِيْزِیْ لُکْطَمِ -

الْمُسَوَّمُ - اچھی ساخت کا، نشان زدہ۔

الْحَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ - چرائے ہوئے یا

چھوڑے ہوئے گھوڑے۔

سَوِي سَوِي سَوِي - الرَّجُلُ - کسی

کام درست ہونا۔

سَوِي - الشَّيْءُ - ہموار کرنا۔ چٹا کرنا۔

سیدھا کرنا۔ محض بنانے کے معنی بھی

دیتا ہے۔ (سَوَاوِي بَيْنَهُمَا وَسَوَاوِي

وَسَاوَاؤُهَا) برابر کرنا۔ کتے میں

”سَوِيَّتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ“ وہ ہلاک

ہوا۔ اور دفن کر دیا گیا۔ سَوَاوِي

الشَّيْءِ - برابر کرنا۔ سَوَاوِي الرَّجُلِ

قَوْلُهُ - ہم مثل ہونا۔ قدر و قیمت میں

ایک طرح کا ہونا۔ ”هَذَا لَا يَسَاوِي

دُنْهَمًا“ یہ درہم کے برابر نہیں۔

اَسَوِي اَسَوَاءً - ذیل و حقیر ہونا۔ کام

کا درست ہونا۔ الشَّيْءُ - ہموار و برابر

کرنا۔ اَسَوَاءُ يَلَمُ - برابر کرنا۔

تَسَوِي - ہموار و برابر ہونا۔

تَسَاوَايَا - فِي كَذَا - ہم مثل ہونا۔

اِسْتَوِي - الشَّيْءُ - مقتل و مستقیم ہونا

- الرَّجُلُ - کسی کا کام درست ہونا۔

بَلِيْعٌ كَا هُنَا - عَلَيَّ غَالِبٌ اَنَا -

عَلَيَّ كَهْفِي الدَّائِيَّةُ - جَم کر بیٹھنا۔

اِسْتَوِي عَلَى سَرِيْرِ الْمَذَلِ - سے

مراد کامل قبضہ و تصرف ہوتا ہے۔

اِلَى الشَّيْءِ - قَصْد و ارادہ کرنا۔

اِسْتَوَتْ يَدُ الْأَرْضِ - ہلاک ہوا۔

اور دفن کیا گیا۔ اِسْتَوِي الطَّعَامُ

کھانے کا خوب پکنا۔

السَّوِي - قَصْد، ارادہ۔

السَّوَاءُ - درمیان، نیچ - ضَرْب

سَوَاعِدُ - اس نے اس کے وسط

میں مارا۔ لَقِيْتُهُ فِي سَوَاءِ النَّهَارِ

میں اس سے وسط دن میں ملا۔ غیر کے

معنی بھی دیتا ہے، جیسے کہ کتے ہیں۔

”جَاءُوا اَسَوَاءَ زَيْدٍ“ زید کے سوا

سب آئے اور مستوی کے معنی کو بھی

منفید ہوتا ہے مثلاً کتے ہیں: مَكَائِ

سَوَاءٌ وَتَوْبٌ سَوَاءٌ - یعنی طول و

عرض میں برابر جگہ یا کپڑا۔ سَوَاءٌ

السَّيْبِيلِ - سیدھا راستہ۔ هَذَا

دِرْهَمٌ سَوَاءٌ - یہ پورا درہم ہے۔

سَوَاءُ الْجَبَلِ - پہاڑ کی چوٹی۔

السَّوَاءُ - مِثْل، مانند - هُمَا فِي هَذَا

الْأَمْرِ سَوَاءٌ - وہ ہر دو اس میں

ایک طرح کے ہیں۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو

هُمَا سَوَاءَانِ - اور جمع میں هُمَا

سَوَاءٌ - يَا هُمَا سَوَاءٌ - اور

خلاف قیاس جمع لاکر هُمَا سَوَاءِیْنِ و

سَوَايِسَةٍ وَسَوَايِسَةٍ - بھی کہہ سکتے

ہیں۔ كَيْلَةُ السَّوَاءِ - تیرھویں یا چودھویں

رات۔

السَّوِي وَالسَّوِي - درمیان، وسط،

بمعنی غیر یہ حروف استثناء میں سے

ہے۔ کتے ہیں ”جَاءُوا اِسَوِي زَيْدٍ“

زید کے علاوہ سب آئے۔ ”هُمَا عَلَى

حَدِّ اِسَوِي“ ان کے درمیان کوئی

فرق نہیں۔

السَّوِي - برابر۔ ہموار۔ درست، انصاف

مَكَانٌ سَوِيٌّ - درمیانی جگہ۔

غَلَامٌ سَوِيٌّ - بے عیب اچھی ساخت

کا لڑکا۔ جہ - اَسَوِيَاءُ -

السَّوِيَّةُ - السَّوِيَّةُ کا مؤنث۔ برابری۔

”قَسَمْتُ الشَّيْءَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ“

میں نے ان دونوں نے درمیان چیز برابر

برابر بانٹ دی۔ غریب لوگوں کی سواری

جہ - سَوَايَا -

الْمِثْلُ - بیابان۔ ہموار۔ مانند۔ هُمَا

يَسْتَانِ - وہ ہر دو ایک جیسے ہیں۔

مَكَانٌ يَسِيٌّ - ہموار برابر جگہ (مذکورہ)

مؤنث) جہ - اَسَوَاءُ -

لَا يَسِيْمَا وَلَا يَسِيْمَا - خاص کر استثناء کے

معنی میں آتا ہے، کبھی اس کا لا حذف

کر دیتے ہیں۔

الْاَسَوِي - اسم تفضیل۔ اِلَا اِسْتَوَاءُ مَصْدَرٌ



اِسْتَوَى۔ راستی، درستی، اعتدال۔
خط استوار۔ جغرافیہ کی اصطلاح میں
کرہ زمین پر وہ دائرہ عظیم ہے، جو
مشرق سے مغرب کو قطبین سے برابر
فاصلہ پر کھینچا ہوا فرض کیا گیا ہے اور
جو کرہ ارضی کو دو برابر کے شمالی اور
جنوبی حصوں پر تقسیم کر دیتا ہے۔ اس
خط پر تمام سال دن و رات برابر
رہتے ہیں۔

نَسِيَتْ وَتَسِيَّاتٌ۔ المناقاة، اونٹنی
کا بغیر دوہنے کے دودھ ہانا۔
تَسِيَّاتٌ عَلَى الْأُمُور۔ میرے اوپر
امور مختلف ہو گئے۔ تَسِيَّاتٌ
فُلَانٌ بِحَقِّي۔ فلان نے انکار کے
بعد میرے حق کا اقرار کیا۔
اَلنَّسِيَاءُ۔ اللَّبَنُ۔ دودھ کا بغیر دوہنے
کے ہنا۔

النَّسِيءُ وَالنَّسِيءُ۔ دودھ جو خود بخود نکل رہا
ہو۔ جہ۔ سِيَّوَةٌ۔
سَابَ يَسِيْبُ سَبِيْبًا۔ الماءُ۔ پانی
کا ادھر ادھر ہنا۔ الرَّجُلُ يَتَزَجَلُّ
فِي كَلَامِهِ بے سوچے بولنا۔
الدَّابَّةُ جَانور کا آزاد چلنا۔
سَيَّيْبَةٌ۔ چھوڑ دینا۔ الْعَبْدُ غلام
کو آزاد کرنا۔

اَلسَّابُ اَلنَّسِيَابُ۔ تیز چلنا۔ اَلنَّسَابَتُ
اَلْحَبِيَّةُ۔ سانپ کا رنگنا۔ فُلَانٌ
نَحْوَهَا۔ واپس آنا۔
السَّيْبُ۔ مہم، بارش، بخشش۔ مال۔
زیادتی۔ گھوڑے کی دم کے بال۔ جہ۔
سَيَّوْبٌ۔

السَّيْبُ۔ پانی جھنکے جگہ۔ جہ۔ سَيَّوْبٌ۔
السَّيَابُ وَالسَّيْلُ وَالسَّيَابُ۔ کچی کھجور
واحد سَيَابِيَةٌ یا سَيَابِيَةٌ۔
السَّيَابِيَةُ۔ شراب۔

السَّيْبَانُ۔ اصل میں اَلصَّيْبَانُ ہے۔
پسوؤں اور جوؤں کے انڈے۔
السَّيْبَانَةُ۔ چھوڑی ہوئی، آزاد کردہ غلام۔
وہ اونٹنی پر پیام جاہلیت میں نذر کے
لیے چھوڑی جاتی تھی۔ یادس بارہ بچے
جننے کے بعد اس کو آزاد چھوڑا جاتا تھا۔
نہ اس پر سواری لیتے نہ اس کا دودھ
دوتے، اس کا دودھ اس کا بچہ پیتا یا
مہمان کو دودھ پینے کا حق حاصل تھا
اسی طرح پینے اور چرنے میں اس کو
پوری آزادی ہوتی جہاں چاہتی جرتی اور
جہاں سے چاہتی پانی پیتی۔ جہ۔ سَيَّيْبٌ
وَسَوَائِبٌ۔

سَيَّيْبٌ۔ اَلْكُرْمُ۔ انگور کی بیل کے لیے
باڑ لگانا۔
السَّيْبَانُ۔ احاطہ۔ کانٹے دار جھاڑی وغیرہ
کی باڑ جو انگور کی بیلوں یا کھجور کے
درختوں کے ارد گرد قائم کی جائے جہ
سَيَّيْبَاتٌ وَاسْوَجَةٌ وَسَوَجٌ۔

السَّيْبَانُ۔ ایک قسم کی مچھلی۔
سَاخَ يَسِيْخُ سَيِّخًا وَسَيِّخَانًا۔ الماءُ
پانی کا سطح زمین پر ہنا۔ صفت ماءُ
رَسَائِخٌ وَسَيِّخٌ۔ هَذِهِ اَلْأَرْضُ
نُسْتُقِي بِالْمَاءِ سَيِّخًا۔ یہ زمین بستے
ہوئے پانی سے سیراب کی جاتی ہے۔

اَلظَّلُّ۔ سایہ ڈھلنا۔ سَيِّخًا وَ
سَيِّخَانًا وَسَيِّخَةً وَسَيِّخًا
عبادت کے لیے زمین میں پھرنا۔ سفر
کرنا۔ شہر میں پھرنا۔ صفت
سَاخَ يَسِيْخُ سَيِّخًا وَسَيِّخَانًا۔
سَيِّخَةً وَاسَاخَةً۔ ہانا۔ سَيِّخٌ
تَسِيْخًا كَتَبْتُ اَنَّا نَخُوشُ بِيَانِي
سے بولنا۔ اَسَاخَ الْفَرَسُ بِذَنبِهِ۔
گھوڑے کا دم کو ڈھیل کرنا۔

اَلنَّسَاخُ۔ بَطْنُكَ۔ پیٹ کا بڑا ہونا اور۔

نَثَبَ جَانًا۔ اَلثَّوْبُ۔ کپڑے کا پھٹنا۔
بَالَةٌ۔ کشادہ و فراخ دل ہونا۔
السَّيْبُ۔ مہم۔ بننے والا پانی۔ دھاری دار
کپڑا۔ جہ۔ سَيَّوْبٌ وَاسَيَّيْبٌ۔
السَّيْبَانُ۔ مسجد میں رہنے والا۔ روزہ دار۔
السَّيْبَانُ۔ ملکوں میں بہت پھرنے والا۔
اَلنَّسِيَاءُ۔ شرارت اور جھگڑا کو پھیلانے والا
جہ۔ مَسَايِيْخٌ۔

اَلْمُسَيَّبُ۔ مِنَ الثِّيَابِ۔ دھاری دار کپڑا۔
سَاخَ يَسِيْخُ سَيِّخًا وَسَيِّخَانًا۔ مضبوط
ہونا۔ سَاخَتْ قَدَمُكَ فِي السَّيِّدِ
کچھڑ میں پاؤں گڑ جانا۔

السَّيْبُ۔ بڑی چھری (فارسی)
السَّيْبَانُ۔ مٹی کی عمارت۔ جہ۔ سَيَّوْبٌ۔
سَارِضٌ سَيَّرًا وَتَسِيَّرًا وَهَسِيَّرًا
وَهَسِيَّرَةً وَسَيَّرَةً۔ سفر کرنا
جانا۔ چلنا۔ ذَیْبٌ۔ چلانا۔ الدَّابَّةُ
جانور پر سوار ہونا۔ السُّنَّةُ۔ سنت
پر عمل پیرا ہونا۔ سَرَعَتْ مَت
پر دو کرو بے خبر ہو۔ سَارَ الْكَلَامُ
أَوِ اِلْتَقَلَ فِي النَّاسِ۔ کلام یا مثل
کالگوں میں مشہور ہونا۔

سَيَّرَ وَاسَارَ۔ الرَّجُلُ۔ چلانا۔ اَلْحَجَلُ
عَنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ۔ جانور کی پیٹھ
سے بھول اتارنا۔ سَيَّرَ اَلثَّوْبُ۔
کپڑے کو دھاریدار بنانا۔ سَيَّرَ
اَلْمَثَلُ۔ مثل کو لوگوں میں مشہور کرنا۔
سَيَّرَ وَسَيَّرَةً۔ اگلوں کی باتیں بیان
کرنا۔ سَيَّرَ مِنْ بَلَدٍ۔ شہر سے
نکل دینا۔ جلا وطن کرنا۔

سَيَّرَ سَاخَةً۔ ساتھ چلنا۔
تَسَيَّرَ۔ اَلْحَجَلُ۔ کھال کا چھل جانا۔
تَسَيَّرَ۔ باہم مل کر چلنا۔ تَسَيَّرَ
عَنْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ۔ غصہ کے
اُتَارَ کچھڑ سے دور ہونا۔



توار سے مسلح۔ سَیْفُ الْجَبَّارِ تین ستارے ہیں۔ سَیْفُ الرِّیَاح۔ ایک قسم کی نبات۔

السَّیْفُ وَالسَّیْفُ۔ ایک قسم کی سمندری مچھلی جس کی تلوار نما چوڑی ہوتی ہے۔ سمندر کا کنارہ۔ جہ۔ اَسَیْفُ۔

السَّیْفَانُ۔ مِنَ الرِّجَالِ۔ لمبا اور پتلا آدمی۔ مُؤَنَّثُ (سَیْفَانَتُ) بعض کے نزدیک یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ السَّیْفَانُ۔ شمشیر زن۔ جلاور۔ جہ۔ سَیْفَانَةُ رَجُلٌ سَیْفَانٌ۔ خون بہانے والا آدمی۔ الْأَسَیْفُ۔ آدمیوں کے مسلح گروہ۔

الْمَسَیْفُ۔ خشک سال۔ قحط۔ الْمُسَیْفُ۔ تلوار باندھنے والا۔ تلوار سے مسلح بہادر۔ فقیر۔

الْمُسَیْفُ۔ مِنَ الدَّاهِیَةِ۔ وہ درہم جس کے کناروں پر نقش نہ ہو۔ مِنَ الْبُرُوجِ۔ وہ چادریں جن پر تلوار کا نقش ہو یا تلوار کی طرح چوڑی دھاریاں ہوں۔

سَالَ رُضٌ سَیْلًا وَسَیْلَانًا وَمَیْلًا وَمَسَالًا۔ الْمَاءُ۔ پانی کا بہنا۔

سَالَتْ غُرَّةُ الْقُرَیْنِ گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کا لمبا چوڑا ہونا۔

أَسَالَ إِسَالَةً وَسَبَلَ سَبْلًا۔ الْمَاءُ۔ پانی بہانا۔ وَأَسَالَ الْجَاوِدُ۔ جھی ہوئی چیز کو بگھلانا۔ أَسَالَ غُرَّاسًا النَّخْلَ۔ لمبا کرنا۔

تَسَايَلَ الْقَوْمُ۔ قوم کا ہر طرف سے آنا۔ السَّائِلَةُ۔ مِنَ غُورِ الْخَیْلِ۔ گھوڑے کی ناک تک اس کی پیشانی کی سفیدی۔ جہ۔ سَوَائِلُ۔

السَّیْلُ۔ مِم۔ بہنے والا۔ مَاءٌ سَیْلٌ۔ بہنے والا پانی۔ السَّیْلُ۔ سیلاب۔ جہ۔ سَیُولٌ۔

السَّیْلَةُ۔ پانی بہنے کی جگہ۔ سَالُ الْاِسْمِ مَرَّةً

السَّیْسَاءُ۔ ریڑھ کی ہڈی کے بوتر کا مقام۔ السَّیْسَاءُ الظُّفَرُ مِنَ الدَّوَابِّ۔ جانوروں کی پیٹھ کا وہ مقام جہاں سوار ہوتے ہیں۔

سَبَطَ سَبْطًا وَتَسَبَطَ۔ عَلَیْهِمْ نَکْبَانٌ ہونا۔ نگیانی کرنا۔

السَّبَطُ وَالْمَتَسَبِطُ۔ داروغہ۔ سَاعٌ یَسْبِغُ سَبْعًا وَسُبُوعًا۔ الشَّيْءُ ضَائِعٌ ہونا۔ (وَالنَّسَاعُ وَتَسْبِغُ) الْمَاءُ۔ پانی کا سطح زمین پر اودھنا۔

بَنَا۔ النَّسَاعُ الْجَاوِدُ۔ جھی ہوئی چیز کا بگھل جانا۔

تَسْبِغٌ۔ الْحَاظُ بِالطَّیْنِ۔ دیوار کو مٹی سے لیپنا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز پر پتلا پتلا تیل وغیرہ ملنا۔

أَسَاعٌ۔ الشَّيْءُ۔ ضائع کرنا۔ السَّبِغُ مِم۔ سطح زمین پر بہنے والا پانی۔

السَّبَاعُ۔ کارا جو لپائی کے لیے جھوسہ وغیرہ سے تیار کیا جائے۔

السَّبَاعُ وَالسَّبِغَاءُ۔ رات کا حصہ۔ السَّبَاعُ۔ لپائی کرنے کی کرنی۔ تَاغِیَةُ السَّبِیْعِ۔ بچہ کو چھوڑ کر چراگاہ میں جانے والی اونٹنی۔

سَاعٌ یَسْبِغُ سَبْعًا۔ الشَّرَابُ۔ خوش گوار بنانا۔

السَّبِغُ۔ مِنَ الشَّرَابِ۔ خوش گوار شراب۔ سَاَفَتْ تَسِیْفُ سَبْعًا۔ الْبَدُنُ نَاحِیْنِ کے ارد گرد کا بھٹنا۔

سَاَفَتْ تَسِیْفُ سَبْعًا۔ تَلَوْرَ سَے مارنا۔ تَسَبَّیْنَتْ۔ تَلَوْرَ سَے مارنا۔

سَاَفُوا وَتَسَاَفُوا وَاسْتَاَفُوا۔ اسْتِیَافًا۔ آپس میں تلوار سے لڑنا۔ اسْتِیْفَ۔ تَلَوْرَ سَے مارا جانا۔

السَّیْفُ۔ تَلَوْرَ۔ جہ۔ اَسَیْفٌ وَسُیُوفٌ وَأَسِیْفٌ وَمَسِیْفَةٌ وَالسَّایْفُ،

رَاسْتَارَ اسْتِیَارًا۔ زادراہ خریدنا۔ السَّیْرَةُ قُلَانٌ کسی کی سیرت و خصلت پر چلنا۔ السَّیْرُ۔ تسمہ۔ جہ۔ سُبُورٌ وَسُیُورَةٌ وَاسْیَارٌ۔

السَّیْرَةُ۔ سَاسَرُ کَاسِمٌ، عَادِتٌ۔ طریقہ۔ طرز زندگی۔ ہیئت۔ سَوَاخٌ عُسْرَى۔ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی کیفیت۔

”مَنْ طَابَتْ سَیْرَتُهُ، حَمِدَتْ سَیْرَتُهُ“ پاک باطن خوش عادت ہوتا ہے۔ جہ۔ سَیْرٌ۔

السَّیْرَاءُ۔ دھاری دار یا ریشم ملی چادریں۔ خالص سونا۔ ایک قسم کی نبات۔ گٹھلی سے چٹا ہوا چھڑکا۔ دل کا پردہ، کچھور کی ٹہنی۔

السَّائِرُ۔ فَا۔ سَائِرُ الشَّيْءِ۔ باقی ماندہ چیز۔ الْمَثَلُ السَّائِرُ۔ مثل مشہور۔

السَّیَارُ وَالسَّیْرَةُ وَالسَّیُورُ۔ بہت چلنے والا۔

السَّیَارَةُ۔ مُؤَنَّثُ السَّیَارِ۔ قافلہ۔ آفتاب کے ارد گرد پھرنے والا ستارہ۔

جیسے زحل مشتری مریخ۔ زمین۔ زہرہ عطارد وغیرہ۔ جہ۔ سَیَارَاتٌ۔

السَّیَارَةُ۔ موٹر کار۔ السُّوسُ۔ مفع۔ طَرِيقٌ مَسُورٌ۔ چلنے والا راستہ۔ آمدورفت کی سڑک۔

السَّیْرَةُ مِم۔ مسافت۔ بَیْنَهُمَا مَسَیْرَةُ یَوْمٍ۔ ان دونوں کے درمیان ایک دن کی مسافت ہے۔

السَّیْرُ۔ مِنَ الْثِیَابِ۔ دھاری دار کپڑا۔

السَّیْرُجُ۔ تل کا تیل۔ سَیْسٌ یَسِیْسُ سَبِیْسًا۔ الطَّعَامُ۔ گھن گنا۔


سَاسَاكَ۔ شَرَمَ وَلَا نَا۔ عَارُ وَلَا نَا۔ السَّیْسُ۔ چنبیلی کا پردہ۔



<p>الْمَسَالُ - مِنَ الْوَجْهِ - دُرْجِی کا پہلو۔ الْمَسَامُوتِيَّةُ - سیمون جادوگر کی طرف منسوب۔ مال کے ذریعے روحانی باتوں کے حاصل کرنے کا ارادہ۔ سَيْسَةُ الْقَوَاسِ - کمان کا سرا۔ جو سَيَاتُ۔</p>	<p>واحد (سَيَالَةٌ) السَّيَالُ - زور سے بننے والا۔ مونث۔ سَيَالَةٌ۔ مَسِيلٌ - الماء - پانی بننے کی جگہ۔ جو۔ مَسَائِلُ - وَمُسْلٌ وَآمِيسَةٌ وَ مُسْلَانٌ۔</p>	<p>السَّيْلَةُ - پانی کا بہاؤ۔ السَّيْلَانُ - ایک قیمتی پتھر۔ میان میں رہنے والا تلوار کا حصہ۔ جو سَيَالَيْنُ۔ السَّوَالُ - مِنَ الْمَعَاوِي وَغَيْرِهَا۔ بننے والی دھاتیں جیسے پارہ۔ السَّيَالُ - ایک سفید لمبے کانٹوں والا پودہ</p>
--	--	--

ش

<p>الشَّوْطُوبُ - بارش کی بوچھاڑ۔ دھوپ کی تیزی و شدت، ہر چیز کی حد۔ حُسْنُ کا آغاز۔ شَيْزَرَس (شَاَزَاوْشُوْرَزْ) وَشَوَارَا - المکان۔ جگہ کا سخت ونا ہموار ہونا۔ صفت (شَاَزُوْشُوْرَزْ) - (ر) وَشُوْرَزْ بے آرام ہونا۔ ڈرنا۔ اَشَاَزَا - بے آرام کرنا۔ ڈرانا۔ اَشَاَزَ الرجل عن كذا - بلند ہونا۔ اِسْتَسَاَرَ - ہرکنا۔ ڈر کر بھاگنا۔ الشَّارَاةُ - فریب گھوڑا۔ المَشُوْرُ وَالْمَشُوْرُ - بے قرار۔ خوفزدہ۔ شَيْسَ (ر) شَيْسَا - الشَّيْخَ سخت ہونا۔ - الرجل - غم یا بیماری سے بے کل ہونا - المکان - کسی جگہ کا سخت وپتھر ملی ہونا۔ مکان (شَاَسْ) وَشَيْسَ، سخت وپیٹری جگہ۔ ج۔ شَيْسَ وَشُوْسْ۔ شَاَشَا شَاَشَاةٌ وَشَاَشَا - الدَّاعِي الْغَنَمَ أَوِ الْحَبِيْرَ وَهَآ - چرواہے کا بکریوں یا گدھوں کو شَاَشَا یا شُوْ شُو کہہ کر بلانا۔ الْخَلَّةُ کھجور کے درخت کا بار آور نہ ہونا، اس میں گابھا نہ لگنا۔ نَشَاَشَا - الْقَوْمُ قوم کا متفرق ہونا۔ بجھڑنا۔ اَمْرُهُمْ واضح ہونا۔</p>	<p>الشَّاشُ - مص۔ بڑی قسم کی کھجور۔ کھجور کے لمبے درخت۔ شَيْفَتُ (ر) شَاَقَا - الرجل آبلہ پڑنا صفت (مَشُوْفَتُ) - شَيْفَتُ اَصَابَتْ - ناخون کے ارد گرد پھٹنا۔ (ر) شَاَقَا وَشَاَقَا فَلَانَا وَفِلَانِ بغض رکھنا۔ شَيْفَتُ - خوفزدہ ہونا۔ ڈرایا جانا۔ صفت۔ (مَشُوْفُ) شَيْفَتُ الرجل - آبلہ پڑنا۔ اِسْتَشَاَفَتِ - الْفَرْحَةُ ناسور کا خراب ہو کر جڑ پکڑنا۔ شَاَفُ - الْجَرْجَر - زخم کی خرابی۔ الشَّافَةُ - جڑ تلے کا زخم۔ کہتے ہیں "اِسْتَأْصَلَ شَاَفَتَهُ" اس نے اسے جڑ سے کھودیا۔ وَبَيْنَهُمْ شَاَفَةٌ ان کے درمیان دشمنی ہے۔ وَاسْتَأْصَلَ اللَّهُ شَاَفَتَهُمْ - اللہ تعالیٰ ان کی عداوت واذیت کو جڑ سے مٹا ڈالے شَاَفَةُ الْوَجْلِ - آدمی کے اہل و عیال اور مال۔ دَجَلُ شَاَفَةٍ - معزز و بلند مرتبہ شخص شَامَ (ر) شَامَا - الْقَوْمَ عَلَيْهِمْ نحست ڈالنا۔ صفت (شَاَشِمُ) شُوْمَ رَنَ شَامَةً وَشُوْمَ - عَلَيْهِمْ</p>	<p>نامبارک و منحوس ہونا۔ شَاَشَا مَهْمُ - ملک شام کی طرف روانہ کرنا۔ شَاَشَا مَشَاَا مَلَا - یہ۔ بائیں طرف لینا۔ الرجل ملک شام میں آنا۔ اَشَامَ - ملک شام میں آنا یا اس کا ارادہ کرنا اگر کر چلنا۔ تَشَاَشَا وَتَشَاَشَا - ملک شام کی طرف منسوب ہونا۔ بائیں طرف ہونا۔ تَشَاَشَا وَاسْتَشَاَشَا - یہ۔ بدشگونی لینا۔ الشُّوْمُ - بدشگونی۔ سیاہ اونٹ۔ الشَّامُ وَالشَّامُ - ملک شام۔ الشَّامِيُّ وَشَامِيٌّ وَشَامِيٌّ - ملک شام کا رہنے والا۔ الشَّامَةُ وَالْمَشَامَةُ - نحست۔ بے برکتی بایاں پہلو۔ الشَّيْمَةُ وَالشَّيْمَةُ - خلق۔ فطرت۔ عادت۔ جو۔ شَيْمُ۔ الْاَسْمَةُ - اسم تفضیل۔ بدبختی لانے والا۔ جو۔ اَشَاَشِمُ - مُنْثُ شُوْمِي۔ المَشُوْمُ وَالْمَشُوْمُ - نامبارک، نحست والا۔ جو۔ مَشَاَشِيْمُ۔ شَاَنَ (ر) شَاَنَا - قدر و منزلت والا ہونا۔ شَاَنَ شَاَنَكَ - اس نے تمہارے قصد جیسا قصد کیا۔ مَا شَاَنَ شَاَنَكَ اس نے تمہارے معاملہ کی کچھ پروا نہیں</p>
---	--	--



کی۔ ”وَاشْتَاتَ شَتَاؤُكَ“ اپنی حالت پر ہر ہو۔
اِسْتَاتَ - شَتَاؤُكَ کسی کے ارادہ کی طرح ارادہ کرنا۔
الشَّانُ - جہ سُوءُوں وِشْتَائِنْ وِشْيِيئِنْ بڑے بڑے امور و احوال۔ معاملہ ۔ حالت۔ مِنْ شَتَائِهِ كَذَا - آوَانْ يَفْعَلْ كَذَا۔ ایسا کرنا اس کی فطرت و طبیعت سے ہے۔ وَمَا شَتَاؤُكَ۔ تمھارا کیا حال ہے۔ یا تمھارا کیا کام ہے جہ۔ شُونْ وِشْوُونْ۔ کھوپری کا جوٹ یا درز۔ پہاڑ کی مٹی جس میں درخت اگیں۔ جہ۔ شَوْنْ وِآشَوْنْ۔ آنسوؤں کی رگ۔ الشُّوْنْ۔ حواج، ضروریات۔ كَيْفِيَنِ شَوْنُوكْ۔ اپنی خدمات میرے سپرد کرو۔ شَوْنُونْ الخَمِيرْ۔ شراب کارگوں میں اثر۔ شَأْمَى يَشْوُو شَاءً وَادِ اشْتَأْمَى - اِسْتَبَيَاءَ۔ القوم۔ آگے بڑھنا۔ سبقت لے جانا۔ شَأْمَى التَّرَابِ هِنْ البِثْرْ۔ کنویں سے مٹی نکالنا۔ شَأْمَى مُشَاءً آءَ۔ القوم۔ آگے بڑھنا۔ آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ تَشَأْمَى تَشَائِيًا۔ القوم۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ متفرق ہونا۔ تَشَأْمَى مَا بَيْنَهُمَا۔ ایک دوسرے سے فاصلہ پر ہونا۔ الشَّأْوُ۔ مص۔ مدت غایت - قُلُونْ بَعِيدُ الشَّأْوِ۔ فلاں بلند ہمت آدمی ہے۔ عَدَا شَاءً وَآ۔ وہ ایک دوڑ دوڑا۔ الشَّأْوُ۔ اونٹنی کی ہمار۔ اونٹنی کی منگلیاں۔ ٹوکری۔ کنویں کی نکلی ہوئی مٹی۔ المِشَاءَةُ۔ کنویں کا یکچمڑ۔ ٹوکری۔ جہ۔ المِشَائِي۔

شَبَّ (رض) شَبَابًا وَشَبِيبَةً۔ الغلام۔
 لڑکے کا جوان ہونا۔ مِنْ شَبَّ إِلَى
 دَبَّ۔ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک۔
 شَبَّ (نض) شَبِيبًا وَشَبَابًا وَشَبُوبًا۔
 القروس۔ گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کو
 اٹھانا۔ نشاط میں ہونا۔
 شَبَّ (ن) شَبَّاً وَشَبُوبًا۔ التَّار۔ آگ
 روشن کرنا۔ شَبَّتِ التَّار۔ آگ
 کا روشن ہونا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا بلند
 ہونا۔ بَرَّهْنَا۔
 شَبَّ۔ الشَّيْءُ۔ زیادہ کیا جانا۔ بلند کیا جانا
 شَبَّتِ التَّار۔ روشن ہونا۔ شَبَّ
 لَهُ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا اللہ کی طرف
 سے مقدر کیا جانا۔
 شَبَّ وَكَشَبَّ۔ جوانی اور کھیل کود کے
 ایام کا ذکر کرنا۔ الشَّاعِرُ بِالْفَتَاةِ۔
 عورتوں کے محاسن کو بیان کرنا۔
 شَبَّ۔ قَصِيدَةً۔ عورتوں کے ذکر سے
 قصیدہ کو مزین کرنا۔ مدحیہ قصائد سے
 شروع میں تشبیب کا رواج تھا، مگر پھر
 ہر چیز کی ابتدا کو تشبیب کہنے لگے۔
 شَبَّ الْكِتَابُ۔ کتاب شروع کرنا۔
 أَشَبَّ۔ الغلام۔ لڑکے کا جوان ہونا۔
 الرَّجُلُ۔ کسی کا جوان اولاد والا ہونا۔
 اللہ الغلام۔ لڑکے کو جوان کرنا
 القروس۔ گھوڑے کو اکسانا۔
 الثَّوْرُ۔ بیل کا بوڑھا ہونا۔ صفت۔
 رُمِيبٌ وَهَشِيبٌ وَهَشِيبٌ وَهَشِيبٌ وَ
 شَبَّ (شَبَّ)
 أَشَبَّ۔ لَہْ كَذَا۔ مقدر کیا جانا۔
 أَشَبَّ (معنی) پھٹکڑی سے مشابہ ایک
 کافی نمک۔ جوان۔
 الشَّبَابُ وَالشَّبِيبَةُ۔ مع۔ جوانی۔
 سن بلوغ سے تیس برس کی عمر تک کا
 زمانہ۔ ہر چیز کا اول۔ شَبَابٌ

التَّهَارِ - ون کی ابتدا - شَيْبَةٌ
کی جمع شَبَابٌ ہے۔
الشَّبُوبُ - خوبصورت بنانے والا۔ آراستہ
کرنے والا۔ هَذَا شَبُوبٌ لِكَذَا۔ یہ
اس کی قوت اور حسن کو بڑھاتا ہے۔
(- والشَّبَابُ، اندھن۔
الشَّبَابَةُ - بامری۔ (مولا)
الشَّابُّ وَالشَّبُّ - جوان۔ جہ۔ شَبَابٌ
وَشَبَّانٌ وَشَبَّابَةٌ - مَوْتِ شَبَابَةٍ
وَشَبَّاءٌ - جہ۔ شَبَابَاتٌ وَشَبَّاتٌ
وَشَوَابٌ وَشَبَابٌ۔
المِشَبُّ - شیر۔ (المُشْبُوبُ - مِن
الرَّجَالِ - تیز خاطر شخص۔ نَارُ
مَشْبُوبَةٍ - بھڑکتی ہوئی آگ۔
المِشْبُتُ - سوئے کا ساگ۔
شَبَّيْتُ (رَسَ) شَبَّابًا وَشَبَّيْتُ - بِكَذَا
چمٹا۔ متعلق ہونا۔ رَجُلٌ شَبَّيْتُ
اپنے دشمن سے چمٹنے والا۔
المِشْبُتُ - ایک سبزی۔ الشَّبْتُ - کڑوی۔
بہت ٹانگوں والا ایک کڑا۔ جہ۔
أَشْبَابٌ وَشَبَّانٌ۔
الشَّبَابُ وَالشَّبُوبُ - جہ۔ شَبَابِيَّةٌ۔
ٹپے ہوئے سے والی میخ۔
شَبَّحَ (رَفَّ) كَلِمَاتِ الشَّيْءِ - بھڑانا۔
چیرنا۔ الْجِدْلُ - کھوٹیوں کے درمیان
چڑے کو تانا۔ الرَّجُلُ - گھسیٹنا۔
- الدَّارِجِ - دھلے کے لیے ہاتھ پھیلانا۔
فَلَانٌ - سیدھا کھڑا ہونا۔
شَبَّحَ رَكَّ شَبَابَةً - لمبے چوڑے
بازوؤں والا۔
شَبَّحَ - بڑھا ہو کر کمزوری نظر کے باعث
ایک چیز کو دو دیکھنا۔ الشَّيْءُ -
چھیلنا۔ چڑا کرنا۔
شَبَّحَ - الْجِرَاءُ عَلَى الْعَوْدِ - گرگٹ
کا کڑوی پردراز ہونا۔

الشَّبْرُ والشَّبْرُ - شخص۔ وجود۔ بندو
بالا دروازہ۔ ج۔ شُبْرُومَ وَأَشْبَاحُ
- أَشْبَاحُ الْمَالِ - نظر آنے والا
مال۔ مثلاً اونٹ بکری وغیرہ۔
الشَّبْرُحَةُ - اسم مرہ جھت کی لکڑی گھوڑے
کی ٹانگیں باندھنے کی رسی۔
الشَّبْرُحَانُ - لمبا۔
الشَّبْرُحُ - والشَّبْرُحُ - والشَّبْرُحَةُ
بجھو مصیبت۔ ج۔ شَبْرَاحُ۔
شَبْرَدَن (من) شَبْرًا - الثَّوبُ - بالشت
سے ناپنا۔ شَبْرَةُ مَالًا - مال دینا۔
شَبْرُ دَس، شَبْرًا - الرَّجُلُ - اگر نا۔
اِترانا۔
شَبْرٌ - الشَّيْءُ - اندازہ کرنا۔ فَلَانَا
تعلیم کرنا۔
أَشْبَرٌ - فَلَانَا - فضیلت دینا۔ هُمَا لَا
کسی کو مال دینا۔ الرَّجُلُ - دراز
قامت بیٹوں والا ہونا۔ کوتاہ قد بیٹوں
والا ہونا۔
تَشَابَرٌ - الْغَرِيفَانِ فِي الْحَرْبِ جَنَک
میں ایک دوسرے کے نزدیک آ پہنچنا۔
تَشَابَرٌ - صاحبِ تعلیم ہونا۔
الشَّبْرُ - مَص - مہر - شادی، عمر، قد۔
الشَّبْرُ - عَمْرٌ - بالشت۔ ج۔ أَشْبَارُ -
هُوَ قَصِيرُ الشَّبْرِ - وہ نزدیک
نزدیک قدم رکھنے والا ہے۔
الشَّبْرُ - عطیہ۔ خیر۔ الشَّبْرَةُ - قد۔
الشَّبْرَةُ - عطیہ۔
الشَّبْرُ - بَکَل - ج۔ شَبَابِيْرُ وَشَبُوْرَاتُ
دعرائی
الْأَشْبُوْر - ایک قسم کی مچھلی۔ الْمَشَابِرُ
نشیبی ندیاں جن میں آس پاس کا پانی
سمٹ آئے۔ واحد (مَشَبَرٌ وَ
مَشَبَرَةٌ)
شَبْرَقَةٌ - کھڑے کھڑے کرنا۔ شَبْرَقَتِ

الدَّابَّةُ فِي مَشْيِهَا - جانور کا چلنے
میں کشادہ کشادہ قدم رکھنا۔ المَبَازِي
الصَّيْدِ - شکرہ کا اپنے شکار کو بچیر
پھاڑ ڈالنا۔
الشَّبَارِقُ وَالشَّبَارِقُ - کھڑے۔ ثَوْبٌ
شَبَارِقٌ وَشَبَارِقٌ وَشَبَارِقٌ
وَشَبْرَقٌ وَشَبْرَقٌ - کھڑے
کھڑے کیا ہوا کپڑا۔
الشَّبْرُقُ - بلی کا بچہ۔ ج۔ شَبَارِقُ -
الشَّبْرُقَةُ - کپڑے کا قطعہ۔
الشَّبْرَقُ - ہر شے کی شدت۔
تَشَبَّصٌ - الشَّجَرُ - درخت کا گنجان
ہونا۔ الشَّبْصُ - حُشُونَتِ - درخت
کے کانٹوں کا ایک دوسرے سے الجھا
ہوا ہونا۔
الشَّبَاطُ - ماہ فروری۔ الشَّبُوْطُ و
الشَّبُوْطُ - ایک قسم کی مچھلی جس کا
سر چھوٹا اور بدن چوڑا ہوتا ہے۔ ج۔
شَبَابِيْطُ -
شَبَعٌ دَس، شَبَعًا وَشَبَعًا - مِّنَ
الطَّعَامِ - سیر ہونا۔ شَبَعْتُ مِّنْ
هَذَا الْأَمْرِ وَرَوَيْتُ - میں اس
امر سے اکتانگیا۔
شَبَعٌ دَس، شَبَاعَةً - عَقْلُهُ - بڑا
عقل مند اور سنجیدہ ہونا۔
شَبَعَتْ - غَمَّةٌ - سیر ہونے کے قریب ہونا
أَشْبَعَةً - کھانے سے سیر کرنا۔ الشَّيْءُ
بُڑھانا۔ الثَّوبُ مِّنَ الصَّبِغِ
کپڑے کو رنگنا۔ الْكَلَامُ - مکمل اور
پورا کلام کرنا۔
تَشَبَّعٌ - سیر ہونے کا بہانہ کرنا۔ بہت کھانا۔
الشَّبَعُ وَالشَّبَعُ - اس قدر کھانا جو سیر کرے
الشَّبَاعَةُ - سیری کے بعد بچ جانے والا کھانا۔
الشَّبَعَةُ - کھانے کی مقدار جو ایک بار
سیر کر دے۔

الشَّبَعَانُ - عَکَم - سیر۔ مَوْنَتُ - شَبْعِي و
شَبْعَانَةٌ - ج۔ شَبَاعٌ وَشَبَاعِي
ہی شَبْعِي الذَّرَاعُ - وہ مسے بڑا زو
والی ہے۔ شَبْعِي الْخُلْخَالِ أَوْ
السَّوَارِ أَوِ الدَّرْعِ - موٹی - فرہ۔
الشَّبِيعُ - سیر، بکرت۔ رَجُلٌ شَبِيعٌ
الْعَقْلُ - بہت عقل والا۔ ثَوْبٌ
شَبِيعٌ - الْغَزْلُ - بہت سوت والا
کپڑا۔ حَبْلٌ شَبِيعٌ - کئی لڑیوں
والی رسی۔
شَبِيعٌ دَس، شَبَقًا - بہت شہوت والا
ہونا۔ صَفَتِ (شَبِيعٌ) - مَوْنَتُ -
الشَّبِيعَةُ - مِّنَ اللَّحْمِ - گوشت
سے بد معنی ہونا۔
الشُّوْبُقُ - فارسی۔ بیلن۔ ج۔ شَوَابِقُ
شَبَكْتُ دَس، شَبَكًا - الْأُمُورَ - امور کا
پیچیدہ ہونا۔ شَبَكَةً عَثَهُ - غافل
کر دینا۔
شَبَكٌ وَشَبَكٌ - الشَّيْءُ - ایک دوسرے
میں داخل کرنا۔ ملا نا۔
أَشَبَكٌ - الْقَوْمُ - نزدیک نزدیک کنویں
کھودنا۔ أَشَبَكَ الْمَكَانُ - قریب
کنویں والی ہونا۔
شَبَابَكَ - بَيْنَ الْأَصَابِعِ - انگلیوں کو ایک
دوسرے میں داخل کرنا۔
تَشَابَكَتْ - الْأُمُورُ - امور کا پیچیدہ ہونا
باجم مختلط ہونا۔
لِشَبَكٍ وَتَشَبَكٍ - مختلط ہونا۔ پیچیدہ
ہونا۔ الجھا ہوا ہونا۔
الشَّبَكَةُ - شکاری کا جال۔
الشَّبَكَةُ - بہت کنویں والی زمین۔ نزدیک
نزدیک بہت سے کنویں۔
الشَّبَكَةُ - قَرَابَتِ - طَرِيقُ شَبَابَكَ
شکی اور پیچیدہ راستہ۔ ج۔ شَوَابَكَ
الشَّبَاكُ - جال بنانے والا۔



الشَّبَاكُ - جال دار کھڑکی - کھڑکی - جہ -
شَبَابِيكُ - جال - شکاری لوگ -
الشَّبَايِكُ - جھکڑے -
المُشَبَّكُ - ایک قسم کا کھانا -
شَبَلٌ (ن) شَبُولَا - الغَلَامُ - لڑکے کا نازو
نعمت میں پلنا - بڑھنا - صفت - شَابِلٌ
- فِي بَنِي فَلَانٍ - پرورش پانا -
أَشْبَلٌ - عَلَيْهِ - کسی پر شفقت کرنا اور اس
کی مدد کرنا - أَشْبَلَتِ الْمَرْأَةُ
عَلَى أَوْلَادِهَا - عورت کا خاوند مرنے
کے بعد بچوں کی نگرانی کرنا اور نکاح نہ
کرنا -

الشَّبَلُ - شیر کا بچہ جب شکار کرنے کے
قابل ہو - جہ - أَشْبَلُ وَيَشْبَالُ وَ
أَشْبَلٌ وَشَبُولٌ - أَبَوَا أَشْبَالٍ -
شیر - لَبُوءَةٌ مُشْبِيلٌ - بچوں والی
شیرنی -

شَبَمَ (ن) شَبَمًا وَشَبَمَ - الْجَدَى -
بکری کے بچے کے منہ میں تھوٹھنی لگانا -
شَبِمَ (س) شَبَمًا - المَاءُ - پانی ٹھنڈا
ہونا - الشَّبْمُ - سردی -
الشَّيْمُ - صبح و شام یا بھوک کے ساتھ صبح
و شام - مُؤَنَّفٌ (شَبْمَةٌ) - ہتھیار -
زہر - موت -

الشَّبَامُ وَالشَّبَمُ - وہ لکڑی جو بکری کے
بچے کے منہ میں لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ
دودھ نہ پنی سکے - الشَّبَامُ - عورتوں کے
برقع میں دو ڈوریاں جن کو وہ گدی پر
باندھ لیتی ہیں -
المُشَيَّمُ - تھوٹھنی - باندھا ہوا بکری کا بچہ -
بھوکا -

شَبَنَ (ن) شَبْنًا - الغَلَامُ - لڑکے کا
نازک بدن اور پر گوشت ہونا -
شَبُونًا، الشَّيْ - قریب و نزدیک ہونا -
الشَّابِنُ - مِنَ الْغُلَمَانِ - نازک بدن پر

گوشت لڑکا -
الشَّيْبُنُ وَالْأَشْيَبُنُ - دولہا کا خدمتگار -
وَشَيْبَنَةٌ وَأَشْيَبَنَةٌ - دامن کی
خدمتگار (سریانی)
الشَّبَانِيُّ وَالْأَشْبَانِيُّ وَالشَّبَانِيَّةُ - سرخ
چہرے اور مونچھوں والا -
شَبَهَهُ - آيَاهُ وَشَبَهَهُ - بہ - تشبیہ
دینا - مانند ٹھہرانا -
شَبَهَ - عَلَيْهِ الْأَمْرُ - مشتبہ کرنا شک
میں ڈالنا - شَبَّ الشَّيْءُ - مشکل ہونا -
شَبَّ - عَلَيْهِ الْأَمْرُ - کسی پر کوئی معاملہ
مشتبہ ہونا -

أَشْبَهَهُ وَشَابَهَهُ - مانند ہونا - مشابہ
ہونا - أَشْبَهُ فَلَانٌ أُمَّةً - فلان اپنی
ماں کے مشابہ ہے یعنی عورت کی طرح
عاجز و کمزور ہے -

تَشَبَّهَ - بہ - نقل کرنا - مانند ہونا -
تَشَابَهَ - الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے
کے مانند ہونا - الْأَمْرُ - کسی امر کا
متشابہ غیر محکم ہونا -

اِسْتَشَبَهَا - ایک دوسرے کے مشابہ ہونا -
اِسْتَبَّهَ فِي الْأَمْرِ - کسی امر کے
متعلق شک میں ہونا - اس کی صحت میں
شک کرنا - الْأَمْرُ عَلَيْهِ - پوشیدہ
ہونا - مشتبہ ہونا -

الشَّيْبَةُ وَالشَّبَةُ - مثل - مانند - جہ -
أَشْبَاهُ وَمَشَابِيهُ - أَشْبَهَ
مشابہت - الشَّيْبَةُ وَالشَّبَةُ
وَالشَّبَهَانُ - وَالشَّبَهَانُ - پیتل -
الشَّبَهَةُ - مثل - شک، التباس، غیر یقینی،
جس میں حق و باطل یا حرام و حلال میں
تیز نہ ہو سکے جہ -

الشَّيْبَةُ - ایک جیسے - نیل - جہ - شَبَاهُ
الْمُشَبَّهُ وَالْمُشْتَبَّهُ - مِنَ الْأُمُورِ - مشکل
یا شکی بات - آيَاكَ وَالْمُشَبَّهَاتِ

مشکل امور سے خود کو بچانا -
شَبَا يَشْبُو شَبْوًا - الشَّيْءُ - بلند ہونا -
الْفَوْسُ - گھوڑے کا دو ٹانگوں پر کھڑا
ہونا - الْوَجْهُ - چہرہ کا تغیر کے بعد
چکنا - النَّارُ - آگ جلا نا - روشن کرنا -
أَشْبَى (شَبَاءً) - الرَّجُلُ - دینا -
عَلَيْهِ - مہربان اور شفیق ہونا - هُ
اکرام و تعظیم کرنا - مصیبت میں ڈالنا -
الشَّجَرُ - درخت کا لمبا اور الجھا ہوا
ہونا - الشَّيْءُ - ہٹانا - الرَّجُلُ -
ذہین بچوں والا ہونا - صفت - مُشْبِيٌّ وَ
مُشْبٍ، الْأَوْلَادُ أَبَاهُمْ - اولاد
کا اپنے باپ کے مشابہ ہونا -

الشَّبَاةُ - نوزائیدہ بچھو یا زرد بچھو - دو
ٹانگوں پر کھڑا ہونے والا گھوڑا - مِنَ
السَّيْفِ - تلوار کی دھار - بچھوکا ڈنک -
ہر چیز کی حد - جہ - شَبَا وَشَبَوَاتٌ -
بیوقوف آدمی -

الشَّبُو - دکھ، تکلیف -
الشَّبْوَةُ - بچھوکا علم جنس - جَارِيَةٌ
شَبْوَةٌ - دلیر جوان عورت -
شَتَّ (رَض) شَتَّ وَشَتَاتًا وَشَبَّتَا -
پر اکٹھے ہونا - متفرق ہونا - وَشَتَّتَاد
أَشَّتْ، الْأَشْيَاءُ - متفرق کرنا بکھیرنا
"أَشَّتْ بَنِي قَوْمِي" - میری قوم نے
میرے کاموں کو پر اکٹھے کیا -
لَشَتَّتْ وَالشَّتَّ وَالشَّتَّتْ - الشَّمْلُ
بکھیرنا متفرق ہونا -

الشَّتَّ - پر اکٹھا کرنا - جہ - أَشَّتَاتٌ -
جَاءُوا أَشَّتَاتًا - جَاءُوا أَشَّتَاتٍ
وَشَّتَاتٍ - وہ متفرق متفرق آئے -
شَّتَانٌ - اسم فعل بمعنی لَعَدَا (دور ہوا)
کتے ہیں "شَّتَانٌ بَيْنَهُمَا وَمَا
بَيْنَهُمَا" وَمَا زَيْدٌ وَأَخُوهُ - ان
دونوں کے درمیان کس قدر بعد ہے -



الشَّيْتِيتُ - مص. متفرق. بکھرا ہوا۔ جر۔
 شَتَّى - وَأُنَاسٌ شَتَّى وَشَتُّوتٌ -
 مختلف نسل کے لوگ۔
 شَتْرَدَنَ (ض) شَتْرًا - الشَّيْءَ - کاٹنا۔
 ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الرَّجُلَ - زخمی
 کرنا۔ الْعَيْنَ - پلک الٹنا۔
 شَتْرَدَسَ (س) شَتْرًا - کٹنا، نیچے کا ہونٹ
 پھٹا ہوا ہونا۔ یہ۔ گالی دینا۔ د۔
 وَشَتِيرٌ - پٹی ہوئی پلوں والا ہونا، یا
 نیچے کی پلک کا ڈھیلا ہونا۔
 شَتْرٌ - عَيْنُهُ - پلک الٹنا۔
 گالی دینا، نکتہ چینی کرنا۔ بری باتیں سننا۔
 اِنْشَتَرَتْ - عَيْنُهُ - آنکھ کا الٹی ہوئی
 پلک والی ہونا۔
 الشَّتْرُ - مص. قطع و برید۔ پلوں کا الٹاؤ
 عیب و نقص۔
 الشُّتْرَةُ - دوا نگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔
 الشَّتِيرُ - بڑا عیب دار اور شری۔ بدخلق۔
 الرَّشْتَرُ - پٹی ہوئی یا پھٹی ہوئی پلک والا۔ نیچے
 کی ڈھیلی پلک والا۔ نیچے کے پھٹے ہونٹ
 والا۔ مَوْنَت (شَتْرَاؤ) جر۔ شَتْرٌ -
 شَتَعَ (س) شَتْعًا - بیماری یا بھوک سے
 گھبرا اٹھنا۔
 شَتَعَهُ (ف) شَتْعًا - روندنا۔ ذیل کرنا۔
 اَشْتَعَهُ - تلف کرنا۔ المَسَاتِعُ - ہلاکتیں۔
 شَتَمَهُ (ن ض) شَتْمًا وَمَشْتَمَةً و
 مَشْتَمَةً وَمَشْتَمَةً - وَتَسَامًا -
 گالی دینا۔ د۔ شَتْمًا - گالی دینے میں
 غالب ہونا۔
 شَتَمَ - دِک - شَتَامَةً - بدرو ہونا۔ کریمہ
 المنظر ہونا۔ صفت (شَتِيمٌ)
 شَتَمَهُ - بہت گالی دینا۔ شَتَامَةً - باہم
 گالی گلوچ کرنا۔
 تَشَاتَمَ - القوم - ایک دوسرے کو گالی دینا
 تَشَتَمَ - گالی کا مستحق بننا۔

الشَّتَامَةُ - م۔ بدن کی درشتی اور بدروٹی۔
 الشَّتِيمَةُ - گالی۔ جر۔ شَتَايِمٌ -
 الشَّتَامُ وَالشَّتَامَةُ - بڑے چہرے والا۔ بدخلق
 الشَّتَامُ وَالشَّتَامَةُ - گالی دینے کا عادی۔
 بہت دشنام دینے والا۔ الشَّتَامَةُ
 غضب ناک شیر۔
 شَتَا يَشْتُو شَتْوًا وَشَتَّى تَشْتِيَةً و
 تَشْتِي تَشْتِيًا - بِالْبَلَدِ - کسی شہر
 میں موسم سرما گزارنا۔ شَتَا وَتَشْتِي
 - المكان - کسی جگہ سردی کے موسم میں
 ٹھہرنا۔ شَتَا - موسم سرما کے لیے
 کافی ہونا۔
 شَتَا يَشْتُو شَتْوًا وَشَتَّى وَاشْتَى -
 القوم - موسم سرما میں داخل ہونا۔ سردی
 کے موسم میں خفک سالی کی مصیبت
 جھیلنا۔ "هَذَا شَيْءٌ يَشْتِيْبِي" یہ
 موسم سرما میں میرے لیے کافی ہے۔
 شَتَا الشَّتَاءُ - سردی پڑنا۔ شَتَا قِي
 مُشَاتَاةً - وَشَتَاءُ - الرَّجُلَ - موسم
 سرما کے لیے معاملہ کرنا۔
 الشَّتَاءُ - م۔ سردی کا موسم۔ جر۔
 اَشْتِيَةً وَشَتَّى - نسبت کے
 لیے شَتْوِي وَشَتْوِي۔
 الشَّتْوِي - موسم سرما کی بارش، جاوٹیں۔
 فَارَكُهُ الشَّتَاءُ - آگ۔
 الشَّتَاءُ وَالشَّتَا - قحط۔ الشَّتَا و
 الشَّتَوَةُ - جاڑا۔ صاحب الشَّتَوَةُ
 وہ شخص جس کے پاس جاڑے کے موسم
 میں پناہ ملے۔
 الشَّتِي - جاوٹ۔ جاڑے کی بارش۔
 الْمَشْتِي وَالْمَشَاتَا - جاڑے کا موسم یا
 جاڑے کی جگہ۔ سرما کے ایام گزارنے
 کی جگہ۔ جر۔ الْمَشَاتِي - ھذہ -
 مَشَاتِيْنَا وَمَصَافِيْنَا وَمَرَابِعُنَا -
 یہ ہماری سردی گرمی بہار گزارنے کی

جگہیں ہیں۔
 الشَّت - چھوٹے سبب کی طرح کا کڑوے مزے
 کا ایک درخت ہے جس کے پتے چمڑا
 رنگتے۔ کام میں آتے ہیں جنگلی اخروٹ۔
 بہت زیادہ تعداد۔ شد کی مکھیاں۔ پہاڑ
 کی چوٹی کا کنگرہ۔ جر۔ يَشَاتُ - واحد
 (الشَّتة)
 شَتْرَدَنَ (س) شَتْرًا - عَيْنُهُ - آنکھ موٹی
 ہونا۔ الشَّتْرُ - پہاڑ کی چوٹی۔ جر
 شَتْرٌ -
 شَتَايَتُ (س) شَتَاوً وَشَتَايَتُ دِک -
 شَتْوَلَةٌ - اَصَابَهُ - انگلیوں کا
 کھوری اور موٹی ہونا۔ شَتْلُ
 الْأَصَابِعِ - موٹی انگلیوں والا۔
 شَتْرَدَنَ (ض) شَتْرًا - الرَّأْسَ - سر زخمی
 کرنا۔ تَوْرُنَا - کہتے ہیں۔ فَلَانٌ يَشْتَجِرُ
 مَرَّةً وَيَأْسُو مَرَّةً - فلان کبھی غلطی کرتا
 ہے اور کبھی ٹھیک کرتا ہے۔
 شَجَرٌ - الْمَفَاذَةُ - بیابان طے کرنا۔
 الْمَرْكَبُ الْبَحْرُ - جہاز کا سمندر کو چرنا۔
 - الشَّرَابُ بِالْمَاءِ - پانی پلانا۔
 شَجَرُ الْأَرْضِ بَرَا جَدَّتْ - سواری کو
 بہت تیز چلایا۔
 شَجَرُ (س) شَجَرًا - زخمی سرو والا ہونا۔ سر میں
 زخم کے نشان والا ہونا۔ صفت۔
 (أَشَجَرٌ وَشَجِيْبٌ) - جر۔ شَجِي و
 (مَشْجُوبٌ وَمَشْجَجٌ)
 الشَّجِيْبُ وَالْمَشْجَجُ - کھوٹی۔
 شَجَجَهُ - سر کو بہت زخمی کرنا۔ شَجَجَ
 عَلَى الْأَمْرِ - پختہ ارادہ کرنا۔
 شَجَاةٌ مَشَاجَاةٌ وَشَجَاوًا وَشَجَاةٌ -
 القوم - ایک دوسرے کے سر کو زخمی کرنا۔
 الشَّجَابُ - ہوا۔
 الشَّجَلَةُ - سر کا زخم۔ جر۔ شَجَابُ -
 الشَّجَبُ - پیشانی میں زخم کا نشان۔ الشَّجَابُ



سر کو بہت زخمی کرنے والا۔

شَجَبَةٌ (دن) شَجَبًا۔ ہلاک کرنا۔ غمگین کرنا۔
کھینچ کر مشغول کرنا۔ کہتے ہیں: "إِنَّكَ

لَتَشْجِبُنِي عَنْ حَاجَتِي"

شَجَبَ (دن) شَجَبًا و شَجُوبًا و شَجِبَ
(رس) شَجَبًا۔ ہلاک کرنا مر جانا غمگین

ہونا۔ صفت (شَجِبَ و شَاجِبَ)
الشیءُ جانا۔

شَجَبَ (دن) شَجَبًا۔ العُرَابُ۔ کوئے
کا جدائی کی خبر دینا۔

أَشَجَبَ غمگین کرنا۔ تَشَاجَبَ۔ الشیءُ
مل جل جانا۔ آپس میں مخلوط ہونا۔

تَشَجَبَ غمگین ہونا۔
الشَجَبُ۔ مع۔ حاجت، غم، گھر کا ستون

مشک کا بنایا ہوا ڈول جہ۔ شَجُوبٌ
وَأَشْجَابٌ۔

الشَجَبُ۔ مع۔ رنج و تکلیف جو مرض یا
قتال کی وجہ سے لاحق ہو۔

الشَّاجِبُ۔ بہت بکواس کرنے والا۔ مذاقی۔
بہت کائیں کائیں کرنے والا کو۔

الشَّجَابُ۔ بوتل کا کارک۔ ڈھکنا۔ (و۔
الشَّجَبُ و المَشْجَبُ) لکڑی کا اسٹینڈ

جس پر کپڑے رکھے اور پھیلائے جاتے ہیں۔
الشَّجْبَاءُ۔ مشک۔

شَجَرَد (دن) شَجَرًا۔ الشیءُ۔ باندھنا۔
فَلَانًا۔ بٹانا۔ منع کرنا۔ الرَّجُلُ

بِالرُّمَحِ۔ نیزہ مارنا۔ فَمَدَ۔ لکڑی
سے منہ کھولنا۔ الدَّابَّةُ۔ جانور کو

ٹھہرانے کے لیے لگام کو ایسے زور سے
پھٹکانا کہ وہ منہ کھول دے۔ الشَّجَرَةُ

درخت کے کچھ حصہ کو پکڑنا۔ الْبَيْتُ
گھر کے ستون لگانا۔ الْنَبَاتُ جھکی

ہوئی ٹہنیوں کو اٹھانا۔
شَجَرَد (دن) شَجَرًا و شَجُورًا۔ بَيَّنَّهُمْ

أَمْرٌ۔ زیر بحث ہونا۔ مختلف فیہ ہونا۔

شَجَرَتَيْنَهُمْ۔ آپس میں جھگڑنا۔

شَجَرَد (رس) شَجَرًا۔ الرَّجُلُ۔ بہت
جمعیت والا ہونا۔

تَشَجَّرَ۔ الْنَبَاتُ۔ پودہ کا درخت ہونا۔

النَّخْلُ۔ لُؤْنُ کے خوف سے خوشہ
کو ٹہنی پر رکھنا۔

شَاجِرَةٌ مُشَاجِرَةٌ۔ جھگڑا کرنا۔
الْمَاشِيَّةُ۔ اور سبزی کے نہ ہونے سے

موتی کا درختوں کے پتوں پر گزارہ کرنا۔
الْمَاشِيَّةُ۔ مویشی کو درخت چرانا۔

أَشَجَرَ۔ الْمَكَانُ۔ کسی جگہ کا درخت اگانا۔
تَشَاجَرُ۔ الْقَوْمُ۔ لوگوں کا آپس میں

جھگڑنا۔ آپس میں گتھنا۔ تَشَاجَرُوا
بِالرُّمَحِ۔ آپس میں نیزہ سے لڑنا۔

الشیءُ بعض کا بعض میں مل جل جانا۔
الْتَشَجَّرَ۔ جلدی سے نجات پانا۔ كَوْمُهُ

نیند کا دور ہونا۔
الْتَشَجَّرَ۔ الْقَوْمُ۔ قوم کا آپس میں جھگڑنا

کرنا۔ الرَّجُلُ۔ آگے بڑھنا۔ جلد
خلاصی پانا۔ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ کا

سہارا دینا۔ نَوْمُهُ۔ نیند کا دور ہونا
الشَّجَرُ۔ درخت۔ جہ۔ أَشْجَارٌ و

شَجَرَاءُ۔ واحد (شَجَرَةٌ) جہ
شَجَرَاتٌ۔

شَجَرَةُ النَّسَبِ۔ آبِاؤ اجداد کا نسب نامہ
الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ۔ تھوہر کا

درخت۔ شَجَرَةُ الْحَيَاةِ۔ بس درخت
سے اللہ نے آدم کو منع کیا تھا۔

الشَّجَرُ۔ مع۔ اختلافی بات۔ ٹھوڑی یا
دونوں جبروں کے درمیان کا حصہ۔ منہ

کا وہ حصہ جو بند کرتے وقت ظاہر ہو۔
جہ۔ أَشْجَارٌ و شَجُورٌ و شَجَارٌ۔

الْحُرُوفُ الشَّجَرِيَّةُ۔ ش من ج۔
بعض کے نزدیک ش ج ق ک ی۔

الشَّجَرَةُ۔ چاہ زرخیزان۔ مَكَانٌ شَجَرٌ۔

و شَجِيرٌ و أَشْجَرٌ و مَشْجَرٌ۔

بہت درختوں والی جگہ مَرْثٌ شَجَرَةٌ و
شَجِيرَةٌ و شَجَوَاءُ و مَشْجَرَةٌ۔

الشَّجَرَاءُ۔ گنجان درخت۔ گنجان درختوں

والی زمین، اس کا مقابل مَرْدَاءُ ہے
یعنی وہ زمین جو درختوں سے خالی ہو۔

الشَّجَارُ و الشَّجَارُ۔ ہودہ کی لکڑی۔ چھوٹی

پالکی جو اوپر سے کھلی ہو۔ دروازہ کے
پچھے لگانے کی لکڑی۔ وہ لکڑی جو بکری

کے بچہ کے منہ میں لگائی جاتی ہے۔ تاکہ
وہ دودھ نہ پی سکے۔ کنویں کی لکڑی۔ اَوْتُ

کا دارغ۔ جہ۔ شَجُورٌ۔
الشَّجِيرُ۔ تلوار۔ اجنبی آدمی۔ مِرَاسَتُ

الشَّجَارِ۔ درختوں کا ماہر۔ جہ۔ شَجَارُونٌ۔
الشَّوَارِحُ۔ مشاغل۔ موانع۔

المَشْجَرُ و المَشْجَرُ۔ ہودہ کی لکڑی،
اوپر سے کھلی چھوٹی پالکی۔

المَشْجَرُ۔ درخت کی جگہ۔
المَشْجَرُ۔ لکڑی کا اسٹینڈ جس پر کپڑے

رکھے یا پھیلائے جائیں۔ جہ۔ مَشَاجِرُ۔
ثَوْبٌ مَشْجَرٌ۔ بوڑھے وار کپڑا۔

کپڑا جس پر درختوں کی شکلیں ہوں۔ اہل
چین کی تحریر کو بھی مَشْجَرٌ۔ کہتے ہیں۔

شَجَرٌ رَكٌ شَجَاعَةٌ۔ بہادر و شجاع
ہونا۔

شَجَعَةٌ (دن) شَجَعًا۔ بہادری میں
غالب ہونا۔

شَجَعٌ (رس) شَجَعًا۔ لمبا ہونا۔ صفت
(أَشْجَعُ) مَرْثٌ۔ شَجَعَاءُ۔

شَجَعَةٌ۔ قوی دل بنانا۔ عَلَى الْأَمِيرِ۔
جرات دلانا۔

شَاجَعَةٌ۔ دلیری میں مقابلہ کرنا۔
تَشَجَعٌ۔ بہادر بننا۔

الشَّجَاعُ و الشَّجَاعُ و الشَّجَاعُ۔ دلیر،
بہادر۔ جرات والا۔ جہ۔ شَجَعَانٌ و



شَجَعَانٌ وَشَجَاعٌ وَشَجَعَاءُ وَ
شَجَعَةٌ وَشَجَعَةٌ وَشَجَعَةٌ وَ
وَشَجَعَةٌ الشَّجَاعُ وَالشَّجَاعُ
ایک قسم کا سانپ۔ ج۔ شَجَعَانٌ وَ
شَجَعَانٌ وَشَجَعَةٌ رَجُلٌ
شَجَعَةٌ وَشَجَعَةٌ یعنی عاجز
بزدل لمبا بے ذول آدمی۔

الشَّجَعُ اسم تفضیل۔ بہادر۔ مؤنث۔
شَجَعَاءُ۔ ج۔ شَجَعٌ شَرِیر، لمبا۔
پیش پیش رہنے والا اونٹ۔ ایک قسم
کا سانپ۔ زمانہ۔
الشَّجَعُ وَالْأَشْجَعُ۔ ج۔ أَشْجَعُ
انگلیوں کی جڑ یا پھیلنے کی پشت کی رگ۔
الشَّجَعُ۔ بہادر۔ دیوانہ اونٹ۔
جَمَلٌ شَجَعٌ الْفَوَارِجُ۔ جلد جلد قدم
اٹھانے والا اونٹ۔

الشَّجَعُ۔ بہادر۔ دلیر۔ ج۔ شَجَعَانٌ وَ
شَجَاعٌ وَشَجَعَاءُ وَشَجَعَةٌ
مؤنث۔ شَجِيعَةٌ۔ ج۔ شَجَاعٌ وَ
شَجَاعٌ وَشَجَعٌ۔

الشَّجَعُ۔ درخت کی جڑیں۔
الشَّجَاعَةُ۔ م۔ جرات، منجلا پن۔ دلیری
خوف کے وقت دل کی مضبوطی۔
المَشْجَعُ۔ بہت پاگل

الشَّجَعُ۔ ہلاکت۔
الشَّجَعُ۔ مصائب، ہلاکتیں۔
شَجِنَ رَسٌ وَشَجِنَ وَشَجِنًا وَشَجُونًا۔
غلیں ہونا۔ صفت دشمنوں،
شَجِنَةٌ رَسٌ شَجِنًا وَشَجُونًا وَشَجِنَةٌ۔
غلیں کرنا۔

شَجِنَتْ رَسٌ شَجُونًا۔ الحَمَامَةُ۔ فاختہ کا
درد بھری آواز نکالنا۔
أَشْجِنَةٌ۔ غلیں کرنا۔ أَشْجِنَ الْكُرْمُ
انگلیوں کی رگ کا الجھی ہوئی اور گھٹان ہونا۔
كَشَجَنَ۔ حرکت کرنا۔ غلیں ہونا۔

الْأَمْرُ۔ یاد کرنا۔ الشَّجَرُ۔ درخت
کا گنجان اور گھٹنا ہونا۔
الشَّجِنُ۔ م۔ الشَّجِنُ۔ ج۔ شَجُونٌ وَ
الشَّجِنَةُ۔ ج۔ شَوَاجِنُ۔ وادی کا
راستہ یا وادی کی بلندی کا راستہ۔

الشَّجِنُ۔ م۔ غم، اندوہ، خواہش نفس۔
ج۔ شَجُونٌ وَشَجِنٌ۔ الشَّجِنُ وَ
الشَّجِنَةُ وَالشَّجِنَةُ وَالشَّجِنَةُ۔
الجی ہوئی پیچیدہ جگہ، ہر چیز کی شاخ۔
الْحَدِيثُ ذُو شَجُونٍ۔ بات میں بات
نکلتی ہے۔ الشَّجِنَةُ۔ پار کی دراڑ
شکاف۔ شَجِنَةٌ وَشَجِنَةٌ کی جمع
شَجِنٌ وَشَجِنٌ وَشَجِنَاتٌ وَ
شَجِنَاتٌ وَشَجِنَاتٌ۔

شَجَادَنَ شَجَوًا وَشَجِي لَشَجَاءَ۔
الرَّجُلُ غَلِيظٌ كَرْنَا۔ خوش کرنا۔
دُخَانُ كَسَانَا أَشْجَى الْغَرِيمِ وَالسَّائِلِ
قَرْمُوهُ يَأْسَأُلُ كَوْحِبَ مَشَارِدِنَا۔
شَجِي رَسٌ شَجِي۔ غلیں ہونا۔ بالشَّجَا
حلق میں ہڈی ایک جانے سے کلا گھٹنا۔
عَلَيْكَ بِالْكَظْمِ وَإِنْ شَجِنَتْ
يَا لَعُظْمٍ یعنی ضبط و تحمل سے کام
لے۔ اگرچہ تیرے حلق میں ہڈی ایک
گئی ہو۔

تَشَجَّحِي۔ غم کا اظہار کرنا۔
الشَّجَا۔ م۔ حلق میں ایک جانے والی ہڈی
وغیرہ۔ غم، رنج۔

الشَّجُو۔ م۔ غم۔ اندوہ۔ حاجت۔ لَكُ
عِنْدِي شَجُو۔ اس کی مجھ سے
حاجت ہے۔ گریہ و زاری کا ایک دور۔
الشَّجِي وَالشَّجِي۔ غلیں، فکر مند۔ مؤنث
شَجِيَّةٌ وَشَجِيَّةٌ نسبت کے لیے
شَجُوِيٌّ۔ مَقَاذَةُ شَجَوَاءُ۔ دشوار
گزار بیابان۔

شَجَرٌ رَسٌ شَجَا وَشَجَا وَشَجَا۔

بِالشَّيْءِ وَعَلَى الشَّيْءِ۔ بخل کرنا۔ جرم
ولاچار کرنا۔

تَشَاحٌ۔ بِالشَّيْءِ عَلَى خُلَايَا۔ کسی سے
کسی چیز پر بخل کرنا۔ کسی سے جھگڑا
کرنا اور اسی سے ہے یہ قول "لَا
مُشَاحَّةَ فِي الْأَمْرِ" یعنی یہ صاف
اور کھلا معاملہ ہے، اس میں کوئی جھگڑا
نہیں۔

تَشَاحٌ۔ الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِ وَفِيهِ۔ کسی
چیز کے بارے میں آپس میں بخل کرنا۔
تَشَاحُوا عَلَى الشَّيْءِ۔ ہر ایک کا اپنے
لیے پسند کرنا۔ تَشَاحٌ الْخَصْمَانِ
بِالْجِدَالِ۔ جھگڑنے میں ایک دوسرے
پر غالب ہونے کی خواہش کرنا۔

الشَّحُّ۔ م۔ بخل۔
الشَّحِيحُ۔ بخل۔ حریص۔ ج۔ شَحَاةٌ۔
وَأَشْجَعٌ وَأَشْجَعٌ۔ مؤنث۔ شَجِيَّةٌ
ج۔ شَحِيحٌ۔ اَيْلٌ شَحَاةٌ۔ کم دودھ
والی اونٹنیاں۔

الشَّحَاةُ۔ بخل۔ حریص۔ الشَّحَاةُ۔
مِنَ الْأَرْضِ۔ وہ زمین جو بغیر زیادہ
بارش کے پانی نہ بہائے۔ زَنْدٌ
شَحَاةٌ۔ آگ نہ دینے والی حقیق
ماءٌ شَحَاةٌ۔ مٹھور پانی۔

شَجِبَ رَسٌ وَشَجِبَ رَسٌ وَشَجِبَ
شُجُوبَةٌ وَشُجُوبًا۔ لَوْنُهُ۔ بھوک
یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے چہرہ کا رنگ
بدلنا۔

الشَّاحِبُ۔ فَا۔ لا غرڈ بایا تغیر رنگ والا۔
شَحِبَتْ رَسٌ شَحِيحًا۔ اِلْمَدِيَّةُ۔ چھری
تیز کرنا۔

شَجَحَ رَسٌ شَحِيحًا وَشَحَاةً وَ
شَحِيحًا وَشَحَاةً وَشَحَاةً وَشَحَاةً
الْبَغْلُ أَوْ الْعَرَابُ۔ غجرا ہنسانا۔
کوسے کا کائیں کائیں کرنا۔

الشَّجَائِرُ وَالْمَشْحَبُ وَالشَّاجِبُ كَدَرُ
بَنَاتِ شَجَائِرٍ أَوْ شَاجِبٍ - نَجْرِينَ -

شُجَّاجٌ - الْبَغْلُ أَوِ الْغَرَابُ - وَ
شُجَّاجُهُمَا نَجْرِيَا كَوَيْ كِ آوَارِ -

الشَّوَّاجِبُ - كَوَيْ -
شَحْنُ (رَف) شَحْنًا - السَّيِّئُ وَنَحْوَهُ

چھری وغیرہ تیز کرنا۔ صفت مفعول۔
(شَحْنُ وَ شَحْنٌ) - هَ بَصَرِي

گھورنا۔ الْجَوْعُ مَحْدَثُهُ نَحْتُ بَهْوَك
لگنا۔ الشَّيْءُ جَمِيلًا - فِي النَّسْوَلِ

مانگنے میں بہت اصرار کرنا۔ "هُوَ
يَشْحَذُ النَّاسَ" وہ لوگوں سے لچڑھنے

سے مانگتا ہے۔ عَلَيْهِ غَضَبُ نَاك
ہونا۔ الدَّائِلَةُ جَالُورُ كَوَيْزِي سَے

ہانگنا۔ وَتَشْحَذُكَ بَٹَانَا۔ وَهَتَكَرَا
وَتَشْحَذُ الرَّجُلُ - سَوَالِیْنِ لَچڑھنے

اختیار کرنا۔
أَشْحَذُ - السَّيِّئُ - چھری تیز کرنا۔

شَاحَذًا - تَلَوَارِدُ غَیْرَہ تِیز کَرْنِے مِیں
مُشَابَہت کَرنا۔

الشَّحَاذُ - سَوَالِیْ بَگَاگَر سَائِلِ - جہ
شَحَاذَةً رَالِشَحَاذَةً گداگری

کا پیشہ
الْمَشْحَذَانُ وَالْمَشْحَذَانُ - بھوکا۔ مانگنے

والا۔ ہلکا چلنے والا۔ رَجُلٌ شَحْنٌ وَدُ
تیز اور غصہ کے وقت طیش میں آنے والا۔

الْمَشْحَذُ - چھری چاقو وغیرہ تیز کرنے کی
سان تیز مانگنے والا۔

الْمَشْحَاذُ - پھاڑ کی چوٹی۔ جہ - مَشَاحِذُ
الْمَشْحَذَةُ - تیز کرنے کا ذریعہ۔ باعث۔ کہتے

ہیں "هَذَا الْكَلَامُ مُشْحَذَةٌ"
لِلْفَهْمِ - یہ کلام عقل کی بڑائی کا

باعث ہے۔
شَحْرُفُ شَحْوًا - منہ کھولنا۔
الشَّحْرُ - مِم - پانی بہنے کی جگہ۔ وادی کا

درمیان۔ (ر) الشَّحْنُ کنارہ۔ ساحل۔
الشَّحْرَةُ - تَنَگ سَاحِلِ -

الشَّحْرُومُ - چڑیا سے بڑا سیاہ رنگ، خوش
آواز ایک پرندہ۔ جہ - شَحَارِيذُ -

اس کو شُور بھی کہتے ہیں۔
شَحْرُوسُ شَحْوًا - گھرانہ۔ خوفزدہ ہونا۔

شَحْشَحَ - الْبَحِيرُ - اونٹ کا آواز کو
پھرانا۔ الطَّائِرُ پرندہ کا جلدی سے

اڑنا۔ مِنْهُ - دُرْنَا - الصَّوْرُ
مولے کا آواز نکالنا۔

الشَّحْشَحُ وَالشَّحْشَامُ - بخیل۔ کم خیر۔
بَدَلُقُ - مہیشگی کرنے والا۔ الشَّحْشَحُ

وَسِيعُ بَابَانِ - بہادر آدمی۔ غیرت مند
خوش بیان لیکچرار۔

الشَّحْشَحَانُ - بخیل۔ غیرت مند۔ لمبا۔
الْمَشْحَشَحُ وَالْمَشْحَشَحُ - بے برکت۔

أَشْحَصَةُ - تھکانا۔ مِنَ الْمَكَانِ
(شَحْصَةُ) عَنْهُ - جگہ سے نکالنا۔

جلا وطن کرنا۔
شَحْدَارُفُ شَحْطًا وَشَحْطًا وَشَحْطًا وَ

مَشْحَطًا - الْإِنَاءُ - برتن بھرنے۔
الْبَنَ - دودھ میں پانی زیادہ ملانا۔

الْعَقْرَبُ الرَّجُلُ - بچھو کا کسی کو
ڈسنا۔ الطَّائِرُ پرندہ کا بیٹ کرنا۔

- فَلَانًا - آگے بڑھنا۔ دُور ہونا۔
وَشَحْطًا (س) شَحْطًا الْمَكَانُ - دُور

ہونا۔ شَحْطًا وَشَحْطًا الْجَمَلُ - اونٹ
کو ذبح کرنا۔

شَحْطًا بِالْدَّمِ - خُونِ مِیں تھمنا۔ آلودہ ہونا۔
شَحْطَةً - خُونِ مِیں تھینا۔ آلودہ کرنا۔

أَشْحَطَهُ - دُور کرنا۔
الشَّحْطُ - مِم - خُونِ وَغَیْرَہ سے آلودگی۔

پرندہ کی بیٹ (ر) وَالْمَشْحَطُ وہ
لکڑی کی تھوٹی یا ٹیکی جس پر انگور کی بیل

مَسْمُوكٌ کہتے ہیں۔ مَنُوزٌ شَاحِطًا۔
دور کی منزل۔

الشَّحَاطُ - دُور شَاحِطُ الْأَوْدِيَةِ - دُور
کی وادیاں۔ الشَّوْحَطَةُ - لمبی گھوڑی۔

شَحْلُ (رَف) شَحْلًا - الْحَدِي - بکری کے
بچہ کے منہ میں تھوٹھی لگانا۔ الْيَشْحَاكُ

تھوٹھنی۔
شَحْلُ - الْكُومُ - انگور کی بیل کی شاخیں

تراشنا۔ اس کے لیے قَصَبَ - زیادہ
فصیح ہے۔

شَحْلَةُ (رَف) شَحْلًا - چربی کھلانا۔
شَحْمُ (رَف) شَحْمًا - بہت چربی دار ہونا

موٹا ہونا۔ صفت شَحْمٌ - شَحْمٌ
شَحْمًا - چربی کی خواہش کرنا۔ صفت شَحْمٌ

شَحْمَتُ (رَف) شَحْمًا - شَحْمًا - النَّاَقَةُ -
لاغری کے بعد موٹا ہونا۔

أَشْحَمُ - بہت چربی والا ہونا۔ (ر) شَحْمًا
الْقَوْمُ - چربی کھلانا۔

الشَّحْمُ - چربی۔ ایک لکڑا۔ (شَحْمَةُ) - جہ۔
شَحْمٌ -

الشَّاحِمُ وَالشَّحَامُ - چربی نیچنے والا۔
الشَّحَامُ - بہت چربی کھلانے والا۔ رَجُلٌ

شَاحِمٌ لَاحِمٌ - بدن میں چربی اور
گوشت سے بھرا ہوا آدمی یا چربی اور گوشت

بہت کھلانے والا۔
الشَّحْمَةُ - چربی کا ٹکڑا۔ شَحْمَةُ الْأَرْضِ -

سانپ کی چھتری۔ الْعَيْنُ - آنکھ کا ڈھیلا
- الْأُذُنُ - کان کی لوہ۔ شَحْمَةُ

الرَّقْمَانِ - انار کے اندر دانوں کے بیج
بیج میں باریک چھلکا۔ مَثَلُ مشہور ہے۔

"مَا كُلُّ بَيْضَاءَ شَحْمَةٍ وَلَا كُلُّ
سَوْدَاءَ تَوْرَةٍ" ہر سفید چربی نہیں

ہر سیاہ کھجور نہیں۔ یہ مثل اس وقت
بولی جاتی ہے کہ کسی ایک صفت میں

الشَّيْخُ مُرْتَوِّعٌ رَسٌ وَالْأَكْبَرُ.
 الشَّيْخُ أَكْبَرُ الشَّيْخِ مُرْتَوِّعٌ. فَرَبِ.
 الْمُشَاحِجُ وَالْمُشَاحِمُ. أَهْلُ الْغُرَبِ بَرْت
 جَرَبِي رَكْنٌ وَالْأ.
 الْمُشَاحِمُ وَالْمُشَاحِمُ. جَرَبِي سَ تِيَار
 كَرْدَه شَ.
 شَخْنُ رَفِ شَخْنًا. السَّيْفِيَّةُ كَشْتِي
 بَهْرَا. پُر كَرْنَا. الْمَدِينَةُ بِالْخَيْلِ.
 بَهْرَا. الرَّجُلُ دَهْكَارَا. دَوْر كَرْنَا.
 شَخْنُ رَفِ (ن) وَشَخْنُ دَسِ شَخْنًا.
 الْكَلَابُ كَتَلُ كَشْكَارِ كَيْجَ دَوْر
 مَك نَكَلِ بَانَا مَكْشَارِ كَرْنَا.
 شَخْنُ دَسِ شَخْنًا. عَلَيْهِ كِينَه رَكْنَا.
 أَشَخْنُ. الْمَكَانُ. بَهْرَا. السَّيْفُ.
 تَلَوَار كُومِيَانِ مِيس كَرْنَا. مَوْتَنَارِ هَنْدِ.
 لَهْ بِسَهْمِ تِير مَارَنَ كَيْ لِيَه تِيَار
 كَرْنَا. الصَّبِيُّ. بَجَر كَارُونِ كَيْ لِيَه
 تِيَار بَهْرَا.
 شَاخَتْ لَهْ بَغْضِ وَعْدَاوَتِ رَكْنَا. تَشَاخَتْوَا
 اَبَك دَوْرِي سَ بَغْضِ رَكْنَا.
 الشَّخْنَاءُ. دَشْمَنِي. كِينَه. بَغْضِ.
 الشَّخْنَاءُ. عِدَاوَتِ. وَهْ جَرِزِ جَس سَ كَشْتِي
 بَهْرِي جَائِ. وَشَخْنَاءُ الْبَلَاءِ. پُورِيس
 كُوتَالِ. رَسَالَه كَادَسْتَه. جَانِوَرِ كَيْ
 لِيَه اَبَك دِن رَاتِ كِي رَسَدِ. جَر. شَخْنُ.
 الْمُشَاحِجُ. رَفِ (ن) عَدَاوَتِ مُشَاحِجُ.
 سَخْتِ بَغْضِ اَوْدَشْمَنِي رَكْنٌ وَالْأَدَشْمَنُ.
 شَخَا يَشْخُوَاوَا يَشْخَا شَخُوَا. الرَّجُلُ
 مَنَه كَهْلُونَا. اَلْبَجَامُ قَمَ الْفَرَسِ.
 كَهْلُونَا. شَخَا الرَّجُلُ. قَدَمُونِ كُودُور
 دَوْر رَكْنَا. الْفَرَسُ. مَنَه كَهْلُونَا.
 أَشْخِي قَاكَا. مَنَه كَهْلُونَا.
 شَخِي تَشْخِيَه. خُوَه. مَنَه كَهْلُونَا.
 تَشْخِي. عَلَيْهِ زَبَانِ كَهْلُونَا. زَبَانِ دَارِي كَرْنَا.
 الشَّخَا. هَرَوِيَعِ كَشَادَه شَ. الشَّخُو.

جوف.
 الشَّخُوَةُ. قَدَمِ. رَجُلٌ بَعِيدُ الشَّخُوَةِ
 فِي مَقَامِ صِدْقٍ. أَهْلُ مَقَامِ دَوْرَادُونِ
 مِيس عَالِي حَوْلَه وَبَلَدِ مَتِ آدَمِي.
 الشَّخُوَاءُ. پُورِ اَكْنَوَالِ.
 شَخْنُ (ن) شَخْنًا بِشَابِ كَرْنَا. فِي النَّوْمِ.
 نِينِدِيسِ خَرَلُ لِينَا. اللَّبَنُ. دَوَهِنِ
 كَيْ وَقْتِ دَوْدَه سَ آوَارِ كَانَكَلَا.
 شَخْبُ رَفِ (ن) شَخْبًا وَشَخْبًا. اللَّبَنُ.
 دَوْدَه دَوَهِنَا. اللَّبَنُ. دَوْدَه كَابَنَا.
 أَوْدَا جَرِ الْقَبِيلِ دَمًا بِمَقْتُولِ كِي رَكُونِ
 كَاخُونِ بَانَا.
 لَشَخْبُ. دَوَهَانَا.
 الشَّخْبُ. مَم. خُونِ رَ وَالشَّخْبُ. دَوَهِنِ
 وَقْتِ دَوْدَه كِي دَهَارِ. وَاعْدَاوَتِ الشَّخْبَةِ
 جَر. شَخَابُ.
 الْأَشْخُوبُ. بَقُونِ سَ دَوْدَه مَكْنِ كِي آوَارِ.
 جَر. أَشَاخِيْبُ. وَدَجَرِ شَخِيْبُ.
 خُونِ بَانِ مَالِ كَرْدَنِ كِي كَمِي بُوئِي رَكْ.
 الشَّخَابُ وَالشَّخُوبُ وَالشَّخُوبَةُ.
 پَهَارِ كِي جَوئِي. جَر. شَنَاخِيْبُ.
 شَخْنُ رَكِ شَخُونَةً. جَهْرِي سَ بَدَنِ وَالْأ.
 صَفْتِ شَخْنُ وَشَخْنُ. جَر. شَخَاتُ
 شَخْنُ الْخَلْقِ. كِينَه اخْلَاقِ كَا.
 شَخْنُ الْعَطَاءِ. كَمِ دَوْدَه بَشِ كَا.
 شَخْنُ لَهْ. إِلِيَه. پَهْنَانَا.
 الشَّخْنُ وَالشَّخِيْبُ وَالشَّخِيْبَةُ وَ
 الشَّخِيْبَةُ. بَلَدِ غَبَارِ.
 الشَّخُوَرُ وَالشَّخُوَرَةُ. جَهْوِي شَشِي. دُونَكَا.
 شَخْرَ رَضِ شَخِيرًا. حَلَقِ يَانَاكِ سَ
 آوَارِ نَكَلَا.
 شَخْرَ رَضِ شَخِيرًا وَشَخُوَا. الْفَرَسُ
 آوَارِ جَهْمَارِ. كَهْوَرِ كَا مَنَسَانَا. يَا
 كَدَمِ كَارِيْلَكَا.
 شَخْرَ الْجُلُسِ. كَبَاوَه بَانَدَه شَ كَيْ لِيَه

جَانُورِ كِي بِهِي سَ مَاتِ اِطْهَانَا. النَّخْلَةُ.
 لُوتْنِ كَيْ خُونِ سَ كَهْوَرِ كَيْ خُونِ كُو
 مَنِي پَر رَكْنَا.
 الشَّخْرُ. مَم. مِيسِ الشَّيَابِ. آغَارِ جَوَانِي.
 مِيسِ الرَّحْلِ. كَبَاوَه كِي دَرْمِيَانِي جَكْ.
 الشَّخِيرُ. پَهَارِي رَاسْتَه. الشَّخِيرُ. بَرْت
 خَرَلُ لِينِ وَالْأ.
 شَخْرَ رَفِ شَخْرًا. مِيقَارِ مَوْنَا. مَضْطَرَبِ
 بَهْرَا. عَلَيْهِ الْأَمْنُ. كَيْ پَر كُوفِي كَامِ
 دَشَوَارِ بَهْرَا. دُ بِالرُّمُحِ. نِيَزَه سَ
 مَارْنَا. بَيْنَهُمْ. وَرَعْلَانَا. فَسَادُ الْوَالِدَا
 تَشَاخَرُوا. الْقَوْمُ. أَهْلِي مِيسِ بَغْضِ وَعْدَاوَتِ رَكْنَا.
 الشَّخْرُ. مَم. مَشَقَّتِ كِي سَخْتِي.
 شَخْسُ رَفِ شَخْسًا. الرَّجُلُ. مَضْطَرَبِ
 بَهْرَا. الْجَهْمَارُ. كَدَمِ كَا جَمَائِي لِينِ
 مِيسِ مَنَه كَهْلُونَا.
 أَشَخْسُ. الرَّجُلُ وَبِهْ. كَيْ كِي نِيَسْتِ
 كَرْنَا. أَشَخْسُ لَهْ فِي الْمَنْطِقِ. كَيْ
 كَيْ سَاكُ كَلْمُوكِي مِيسِ تَرَشُوفِي كَرْنَا.
 شَاخْسُ. أَمْرُ الْقَوْمِ. مَخْتَلَفِ بَهْرَا.
 الْجَهْمَارُ. كَدَمِ كَا لِيَه سَوْنَكُ كَر سَرَاوَنِيَا
 كَر كَيْ مَنَه كَهْلُونَا.
 تَشَاخْسُ. الْجَهْمَارُ. مَعْنِي شَخْسُ اَو
 شَاخْسُ. أَسْنَانُكَا. بَرَهَا پِيَه كَيْ
 بَاعَثِ بَعْضِ وَاسْتَوَا كَا كَر اَو نَخِي نِيَجِ
 بَوَكْرِيَه تَرْتِيَبِ بَهْرَا. أَمْرُهُمْ. مَبَاهِ وَ
 پَر لِيَشَانِ بَهْرَا.
 الشَّخِيْسُ. حَكْمِ كَيْ خِلَافِ كَرْنِ مَالَا. اَمْرُ مَفْرَقِ.
 شَخْسُ شَخْمُ. بَهْلَوِيَه بِشَابِ كِي دَهَارِ كُودُور
 پَهْنَكَلَا. صَفْتِ (شَخْسَا) شَخْسَا شَخْنُ
 النَّاقَةُ. اَوْتِي كَا بِهِي بِهِي سِينَه اِطْهَانَا.
 الشَّخْسَا. مَم. مِيسِيَارِ كِي جَهْمَارِ. كَا عَزَا
 نَخِي كَرِيَه وَغِيَرَه كِي كَهْرُ بَرِطِ.
 شَخْسُ رَفِ شَخُوصًا. الشَّخُ. بَلَدِ بَهْرَا.
 - عَنْ قَوْمِهِ آدَمِنِ بَلَدِ اِلِي بَلَدِ.



کرنے۔ مقابلہ کرنا۔
 اَشَدَّ - عقل یا عمر کی پختگی تک پہنچنا مضبوط
 جانور رکھنا۔
 تَشَدَّدَ - قوت والا ہونا۔ مضبوط ہونا۔ کسی
 کام میں سختی کرنا۔
 اَشْتَدَّ - قوی ہونا۔ فی السَّيْرِ - تیز دوڑنا
 عَلَى قَرْنِهِ فِي الْحَرْبِ يَشْدُو - حملہ
 کرنا۔ عَلَيْهِ الْمَرْضَى - بیماری کا بڑھ
 جانا۔ زائد ہونا۔
 تَشَادَّدَ - الشَّيْءُ - مضبوط ہونا۔
 الشَّدُّ - مم۔ شَدُّ النَّهَارِ - دن چڑھنے کا
 وقت اور شدد الرِّيح - سفر کرنے کا
 کٹنا یہ ہے۔
 اِشْدَدَّ - جگہ میں حملہ۔ شدد کا اسم مرہ۔
 اِشْدَدَّ - اشتداد کا اسم بختی۔ تنگی۔ ج۔
 شَدَّدَ وَالْمَشْدَدَةُ - ج۔ شَدَّ اِيْدُ -
 مصیبت۔ شَدَّةُ الْاَرْضِ - زمین کی
 کرختگی۔ سختی۔
 الْمَشْدَى - سختی۔
 الشَّدِيدُ - ہادر۔ قوی۔ بلند۔ مضبوط۔ بخیل۔
 شیر۔ ج۔ اَشْدَّاءُ وَشِدَادٌ وَشَدُوْدٌ -
 رَجُلٌ شَدِيدُ الْعَيْنِ - وہ شخص جس
 پر نیند کا غلبہ نہ ہو۔ وَمِنْكَ شَدِيدُ
 الرَّاحَةِ - تیز خوشبو کا منک۔
 الشَّدِيدَةُ - الشَّدِيدُ کا مؤنث۔ ج۔
 شَدَّ اِيْدُ - حروف شدیدہ، آنٹھ ہیں
 جن کا مجموعہ اُجدات طبقات ہے۔
 الْاَشْدُّ وَالْاَشْدُّ - بَلَّغَ فَلَاوُ اَشْدُّ -
 وہ سین بلوغ کو پہنچا۔ وہ جوانی کی عمر
 تک پہنچا۔
 اِشْدَدَّ - وہ کپڑا جس کو عورت اپنی مکر پر
 باندھتی ہے۔
 الْمَشْدُ - مضبوط چوپایوں والا۔
 الْمُشْدَدُ - فا۔ بخیل۔ امور میں سخت۔
 شَدَّ (ف) شَدَّحًا - مڑنا ہونا۔

اِشْخَلَّ وَالْمِشْخَلَةُ - چھلنی۔
 شَخْمَرَنَ وَشَخْمَرَسَ وَشَخْمَرَكْ
 شَخْمَاوْ شَخْمَاوْ اَشْخَمُ -
 الطَّعَامُ او اللِّحْمُ - کھانے یا
 گوشت کا خراب ہو جانا۔ صفت (شَخْمَرُ)
 - الْقَمْرُ مِنْهٗ كَابِدُوَارِ هُونَا - اَشْخَمَ
 الرَّجُلُ - کسی کا رونے کے لیے
 تیار ہونا۔
 شَخْمَ - الطَّعَامُ - کھانا خراب کرنا۔ بگاڑنا
 - الطَّعَامُ - کھانا خراب ہونا۔ الْقَمْرُ
 مِنْهٗ كَابِدُوَارِ هُونَا۔
 اِشْخَامُ - اللَّيْتُ - گیلی سوکھی گھاس کا
 آپس میں ملنا۔ شَخْرُ اَشْخَمَ - سفید
 بال۔ رَوْضُ اَشْخَمَ - نباتات سے
 خالی باغ۔ عَامُ اَشْخَمَ - وہ خشک
 سال جس میں نہ پانی ہو نہ سبزہ۔
 اِشْخَمَ - وہ لوگ جن کی ناک تیز خوشبو یا
 بدبو سے بند ہو گئی ہو۔
 شَدَّ (ن) شَدَّ - الرَّجُلُ - دوڑنا۔
 - النَّهَارُ - دن چڑھنا۔ عضدہ۔
 مضبوط کرنا۔ قوی کرنا۔ الشَّيْءُ - باندھنا
 مضبوط کرنا۔ الْعَقْدَةُ - گرہ۔ کٹنا۔
 مضبوط کرنا اور اسی سے ہے شد
 الرجال۔ کٹنا یہ ہے سفر سے۔ عَلَى
 يَدِهِ - مدد کرنا۔ قوت پہنچانا۔ لَا
 اَمْلِكُ شَدَّ اَوْ لَا اِرْخَاءً - یعنی
 میں کسی چیز پر بھی قادر نہیں۔
 شَدَّ (ن) شَدَّ اَوْ شَدَّ اَوْ شَدَّ وَا
 - عَلَى الْعَدُوِّ - دشمن پر حملہ کرنا۔
 شَدَّ (ن) شَدَّ - قوی ہونا۔ شَدَّ دَا -
 قوت پہنچانا۔ شَدَّ الضَّرْبُ - بہت
 مارنا۔ غلبہ۔ کسی پر تنگی ڈالنا۔ سختی
 کرنا۔ الْحَرْفُ - حرف کو مشدود کرنا
 - الشَّيْءُ - مضبوط کرنا۔
 شَدَّ (ف) فِي الْأَمْرِ - غالب آنے کی کوشش

چلے جانا۔ کوچ کرنا۔ اَكْبَهُمُ - واپس
 آنا۔ النَّجْمُ - ستارہ کا طلوع کرنا
 - السَّمْعُ - تیر کا نشانہ سے اوپر پڑنا۔
 - الْجَرْحُ - زخم کا سوجنا۔ بَصْرَةُ -
 ملک کی باندھ کر دیکھنا۔ اَلْمَيْتُ بَصْرَةُ
 وَبَصْرَةُ - میت کی آنکھوں کا کھلا
 رہ جانا۔
 شَخِصَ - رہا۔ کسی امر کے پیش آنے سے کسی
 کا بیقرار و بیکل ہونا۔ گھبرانا۔
 شَخِصَ (ر) شَخَا صَدَّ - بدن کا بھاری ہونا
 مڑنا ہونا۔
 شَخِصَ - الشَّيْءُ - متعین کرنا۔ دوسری چیزوں
 سے تیز کرنا۔ اطباء کے نزدیک تشخيص
 امراض بھی اسی سے ہے۔
 اَشْخَصَ - بے آرام کرنا۔ بے قرار کرنا۔
 اَشْخَصَ الرَّجُلُ - کسی کے جانے کا
 وقت قریب آنا۔ یہ۔ غیبت کرنا۔
 لَهٗ فِي الْمَنْطِقِ وَاشْخَصَ الْاَيَّامَ -
 گفتگو میں زبردستی کرنا۔ كَلَّ اِلَى قَوْمِهِ -
 واپس کرنا۔ لوثانا۔ الرَّاعِي - تیر انداز
 کے تیر کا نشانہ سے اوپر لگنا یا لگانا۔
 (لازم و متعدی)
 تَشَخَّصَ - معین ہونا۔ تیز ہونا۔ لَهٗ -
 کسی شخص کی صورت میں دکھائی دینا۔
 تَشَاخَصُوا - آپس میں اختلاف کرنا۔
 اَلشَّخْصُ - وہود جو دور سے دکھاوے
 کا لہد۔ سٹیج۔ ج۔ اَشْخَصُ و
 اَشْخَاصُ -
 الشَّيْخُصُ جسيم۔ مؤنث۔ شَخِصَةُ - سردار
 - مِنَ الْمَنْطِقِ - ترش روئی سے گفتگو
 کرنے والا۔
 تَشَخَّلَ (ف) شَخَّلَ - الشَّرَابُ - صاف
 کرنا۔ اَلنَّاقَةُ - اونٹنی کو دوہنا۔
 شَاخَلَهُ - سہی دوستی کرنا۔
 الشَّخْلُ وَالشَّخِيلُ - سچا و درست۔

اَلشَّدَّةُ - چت لیٹ کر پاؤں کو کشادہ کرنا۔
 اَلشَّادِخُ - فا - مِنَ الْكَلَامِ - وسیع سبزہ۔
 اَلشَّدْحُ - ہر وسیع شے۔
 اَلشَّدْحَةُ وَالْمُشْتَدِّحُ - کشادگی - فراخی۔
 شَدْحٌ (رف) شَدْحًا - اعتدال سے ہٹ
 جانا۔ اَلرَّاسُ - سر توڑنا۔ کھلنا۔
 اَلوَجِلُ - گردن کٹنے کی جگہ پر مارنا۔
 شَدْحَتْ عُرْقَةُ الْفَرَسِ شَدْحًا
 وَشَدُوْخًا - گھوڑے کی پیشانی کی
 سفیدی کا ناک تک پھیلنا۔ گھوڑا۔
 (اَشَدُّ) ہے۔
 شَدْحٌ - اَلرَّاسُ - سر توڑنا۔
 تَشَدُّخٌ وَتَشَدُّخٌ - اَلرَّاسُ - سر
 ٹوٹنا۔ کھلا جانا۔
 اَلشَّدْحُ - ناتمام بچہ۔ قبل از وقت پیدا
 ہونے والا بچہ۔
 اَلشَّادِخُ (رف) چھوٹا ونازک - غُلَامٌ
 شَادِخٌ - جوان لڑکا۔ اَمْرٌ شَادِخٌ
 اعتدال سے ہٹا ہوا۔
 اَلشَّادِخَةُ - گھوڑے کی پیشانی کی ناک تک
 پھیلی ہوئی سفیدی۔
 اَلْاَشَدُّ - شیر - مِنَ الْخَيْلِ - ناک
 تک پھیلی ہوئی سفیدی والا گھوڑا۔ مَوْنَتُ
 شَدْحًا - جہ - شَدْحٌ -
 اَلْمُشْتَدِّحُ - دفعہ - گردن کٹنے کی جگہ۔
 شَدْفَةٌ (رض) شَدْفًا - ٹکڑے ٹکڑے کا ٹنا۔
 شَدْفٌ (رس) شَدْفًا - الْفَرَسُ - گھوڑے
 کا بہت خوش ہونا۔
 اَشْدَفٌ - اَللَّيْلُ - رات کا تاریک ہونا۔
 تَشَادَفٌ - جھکنا۔
 اَلشَّدْفُ - دم۔ رخسارہ کا میلان اور
 جھکاؤ۔ اَوْنَطُ کے سر کا موڑ تاریکی کا بعد
 وجود۔ جہ - شَدُوْفٌ
 اَلْمَشْدُفُ - لمبا تیز کوڑنے والا۔
 اَلشَّدْفَةُ - ٹکڑا۔

اَلْاَشْدَفُ - مائل رخسارہ والا۔ نشاط کے
 ساتھ چلنے والا اونٹ۔ بڑے جسم کا
 گھوڑا۔ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔
 مَوْنَتُ شَدْفًا - جہ - شَدْفٌ -
 شَدْفٌ (رس) شَدْفًا - چوڑی باجھوں والا
 ہونا۔ صفت (اَشْدَقُ) مَوْنَتُ
 شَدْفًا - جہ - شَدْفٌ -
 تَشَدَّقٌ - فصاحت دکھانے کے لیے
 باجھیں کھولنا۔ بِالْكَلامِ وَفِيْهِ
 بلا احتیاط ہر قسم کی گفتگو کرنا۔ لوگوں
 کے ساتھ مسخری کرنا۔ ٹھٹھا کرنا۔
 اَلشَّدْقُ وَالشَّدْقُ - باجھ۔ جہ - شَدْقٌ
 اَلوَادِي - وادی کا کنارہ۔ جہ - اَشْدَاقُ
 وَشَدُوْقٌ -
 اَلْاَشْدَقُ - چوڑی باجھوں والا فصیح الکلام
 اَلشَّدَقَمُ وَالشَّدَقَمُ - چوڑی باجھوں والا
 شیر۔
 اَلشَّدِيْقُ - کاہن سے اپنی درجہ کا پادری۔
 شَدَنَ (رن) شَدْنًا - اَلطَّبِيْعُ - سرنی کا
 قوی ہو کر ماں سے بے نیاز ہونا۔
 اَشْدَنَّتِ - اَلطَّبِيْعَةُ - چلنے کے قابل بچہ
 والی ہونا۔ صفت (مُشْدِنٌ) جہ
 مُشْدِنٌ وَمُشْدِنٌ -
 اَلشَّدْنُ - چنبیلی کے مانند پھول دینے والا
 ایک پروا۔
 اَلشَّادِنُ - فا - جب مطلق بولا جائے تو ہرن
 کا بچہ مراد ہوتا ہے۔
 شَدَّةُ (رف) شَدَّهَا - اَلرَّاسُ - سر کھینا۔
 رَقِيْدَةٌ وَاشْدَاةُ) اَلرَّجُلُ - دہشت
 میں ڈالنا۔
 شَدَّةٌ - حیران ہونا۔ پریشان ہونا۔ دہشت
 زدہ ہونا۔
 اَلشَّدَّةُ - شَدَّةٌ - حیران ہونا۔
 اَلشَّدَاةُ وَالشَّدَاةُ وَالشَّدَاةُ -
 حیرت۔ دہشت۔

اَلْمَشَادَةُ - مشاغل۔ حیران کرنے والے معاملات۔
 شَدَّ اَيْشَدُّ وَشَدَّوَا - اَلرَّجُلُ - گا گا کر
 شعر پڑھنا۔ اَلزَّيْلُ - اونٹ کو صدی گا
 کر مانگنا۔ اَلشَّعْرُ - شعر کو راگ سے
 اور گا کر پڑھنا۔ مِنَ الْعِلْمِ شَدْبًا -
 کچھ علم حاصل کرنا۔ صفت (اَشَادُ)
 جہ - شَدَاةٌ وَمَشَادُوْنَ - شَدَاةٌ
 فَلَانًا اَوْ يَهْلَانًا - تشبیہ دینا۔
 شَدَّ اَشْدَدَّ - وہ اس کی چال چلا۔
 اَشْدَى اَشْدَاءً - عمدہ گانا گانا۔
 اَلشَّدَا - قوت کا بشیہ۔ گرمی۔ کھلی۔ مِنَ
 اَلشَّيْءِ - چیز کی حد۔ کنارہ۔ کہتے ہیں۔
 "لَمْ يَبْقَ مِنَ الْمَلِيْضِ اِلَّا شَدَا"
 جبکہ مریض قریب الموت ہو۔
 اَلشَّدُوْ - مص - بہت میں سے تھوڑی مقدار۔
 شَدْنُ (رض) شَدْنًا اَوْ شَدْنُوْدًا - عَرَنَ
 اَلجَنَّهُوْرُ اَوْ اَلجَنَّاَعَةُ - جدا ہونا۔
 اکیلا ہونا۔ اَلْقَوْلُ - خلاف قیاس
 ہونا۔ عَنِ اَلْأَصُوْلِ - خلاف قاعدہ
 ہونا۔ صفت (شَادِيْ) جہ - شَدَاذٌ و
 شَوَاذٌ - مَوْنَتُ (شَادَّةٌ) جہ -
 شَوَاذٌ - وَالشَّدَاذُ مِنَ النَّاسِ -
 تھوڑے لوگ۔ اجنبی لوگ - شَدَاذٌ
 اَلْاَفَاقِ - مسافر لوگ۔
 شَدَّةُ (رن) شَدَّ اَوْ شَدَّ ذَا - شاد کرنا۔
 اَشْدَّ - ناور بات کہنا۔ اَلشَّيْءُ - حیران کرنا۔
 دور کرنا۔ شاد کرنا۔
 اَلشَّدَاتُ وَالشَّدَاتُ - کبھی ہوئی کنکریاں
 یا پتھریاں۔ شَدَاتُ النَّاسِ -
 متفرق لوگ۔
 شَدْبَ (رن) شَدْبًا وَشَدَّبَ -
 اَللَّحَاءُ - جھال پھینا۔ اَلشَّيْءُ - کاٹنا۔
 شَدْبًا وَشَدَّبَ اَلشَّجَرُ - وریخت کی
 شاخ تراشی کرنا بیٹیاں چھانٹنا۔ اَلْمَالُ -
 مال بکھیرنا - شَدَّبَ عَنْهُ - دفع



کرنا۔ ہٹانا۔ شذَبَہ۔ دھتکارنا۔
 ہٹکانا۔
 تَشَذَّبَ۔ ہٹنا۔ دور ہونا۔ القوم۔ قوم
 کا متفرق ہونا۔
 الشَذْبُ۔ درخت کے ٹکڑے متفرق کھریاں
 چھلکے۔ گھر کا سامان۔ کھائی ہوئی گھاس کا
 باقی ماندہ حصہ۔ ج۔ اَشَذَّبَ۔
 الشَذْبَہ۔ درخت کی کاٹی ہوئی شاخ۔
 الشاذِبُ۔ ف۔ وطن سے دور۔
 الشَوَذِبُ۔ مِنَ الرِّجَالِ۔ لمبا خوبصورت قد
 والا۔ ہر چیز کا بہترین حصہ۔
 المَشَذِبُ۔ شاخ تراشی کا آلہ۔
 المَشَذَّبُ۔ مفع۔ کانٹے اتار دینا۔ فوس
 مُشَذَّبٌ۔ لب پتلا گھوڑا۔
 شَذَرَ۔ انْظَرِ لَهَا۔ لڑکی کو منگے سے جدا کرنا۔
 شَذَرَ کَلَامًا۔ بشعر۔ کلام میں شعر
 داخل کرنا۔ یفْلَانِ۔ کسی کو بدنام کرنا۔
 تَشَذَّرَ۔ لڑائی یا شکر کے لیے تیار ہونا۔ غصے
 ہونا۔ جستی سے کام لینا۔ ج۔ ڈالنا۔
 دھکی دینا۔ القوم۔ آپس میں ایک
 دوسرے سے لپٹ جانا اور ہر ایک کا
 اپنے اپنے راستہ لگنا۔ القوم۔ فی
 الحَرْبِ۔ حد سے گزرنا۔
 الشَذَرُ۔ سونے کے بڑے یا ٹکڑے۔ جو
 کان سے چنے جائیں۔ منکے جن سے جواہر
 کی لڑی میں ناملے دیے جائیں۔ چھوٹے
 موتی۔ واحد (شَذَرَةٌ)۔ ج۔
 شَذَرَاتٌ وَشَذُورٌ۔ تَفَرَّقُوا
 شَذَرَ مَذَرَ وَشَذَرَ مَذَرَ۔ وہ
 مختلف سمتوں میں بکھر گئے۔
 الشَوَذَرُ۔ بڑی چادر۔ بے آستین قمیض۔
 شَذَوْنٌ شَذَقَا۔ مَا شَذَقْتُ
 مِنْهُ شَيْئًا۔ میں اس سے کوئی چیز
 حاصل نہ کر سکا (یہ کلمہ حرف نفی کے بغیر
 استعمال نہیں ہوتا)۔

الشَذَامُ۔ بچھوڑا ہوا کادک۔ نمک۔
 الشَّيْذُ مَانٌ۔ بھیریا۔ الشَّيْذُ مَا تَهُ۔
 تیز رو جوان اونٹنی۔
 شَذَّ اَيْشَذُّ وَشَذَّوْا۔ مشک لگانا۔
 - بِالْخَبَرِ۔ خبر معلوم کر کے اس کو
 سمجھانا (ر۔ وَاَشَذَّيْ) فَلَانَا۔
 اذیت پہنچانا۔ وَاَشَذَّاہُ عَنْہُ۔ دور
 ہٹانا۔
 شَذَّيْ تَشَذَّيْہُ۔ بِالْخَبَرِ۔ خبر معلوم
 کر کے اس کو سمجھانا۔
 الشَذْوُ۔ م۔ مشک۔ مشک کی خوشبو۔
 الشَذَا۔ بول تیزی۔ اذیت و برائی، نمک۔
 کھلی مسواکوں کا درخت۔ لکڑی کے
 ٹکڑے۔ کھلی۔ ایک قسم کی کشتی۔
 الشَذَاةُ۔ شَذَا کا واحد۔ ج۔ شَذَاةٌ۔
 قوت کا بقیہ۔ پرانی چیز۔
 شَذَرُ رَمْنٍ (س) شَذَرٌ وَشَذَرَةٌ وَشَرَرًا۔
 شری ہونا۔ شر انگیز ہونا۔ صفت مذکر
 (شَرَرٌ) صفت مؤنث (شَرَرَةٌ)۔
 ج۔ اَشَرَارٌ وَشَرَارٌ وَاشَرَاءُ۔
 شَرَدَن، شَرَا۔ اللَّحْمُ الْتَوْبُ۔ گوشت یا
 کپڑے کو دھوپ میں خشک ہونے کے لیے
 ڈالنا۔ فَلَانَا۔ عیب لگانا۔
 شَرَرٌ وَاشَرٌ۔ اللَّحْمُ الْتَوْبُ۔ گوشت
 یا کپڑے کو دھوپ یا ہوا کے سامنے
 سوکنے کے لیے رکھنا۔ برائی
 کی طرف نسبت کرنا۔ لوگوں میں مشہور
 کرنا۔ دھتکارنا۔ اَشَرُ الشَّيْءِ۔
 ظاہر کرنا۔
 شَرَرَهُ۔ جھگڑا کرنا۔ تَشَارَا تَشَارَا۔
 باہم جھگڑنا۔
 الشَّرُّ۔ م۔ برائی۔ کینہ۔ دشمنی۔ جنگ۔ عیب
 ج۔ شَرُّورٌ۔
 الشَّوْذَةُ۔ برائی تیزی جیتی۔ غصہ۔ طیش۔
 ہلکان۔ حرص۔

شَرَبَ الشَّيْبَابِ۔ جوانی کی جستی۔
 الشَّرُّ۔ شر۔ کموہ۔ کہتے ہیں: مَا قَلْتُ
 ذَلِكَ لِشَرِّكَ۔ یعنی میں نے تیری کراہت
 کی وجہ سے یہ نہیں کیا۔
 الشَّرُّ وَالشَّرَّاسُ۔ آگ کی اڑنے والی
 چنگاریاں۔ واحد (شَرَّةٌ وَشَرَارَةٌ)۔
 الشَّرِيْرُ۔ شرارت کرنے والا۔ ج۔ اَشْوَارُ
 وَاشَرَاءُ۔ مؤنث۔ شَرِيْرَةٌ۔
 الشَّرِيْرُ۔ سمنہ کا حل۔ ج۔
 اَشَرَّةٌ۔
 الشَّرِيْرُ۔ بہت شری۔ بڑا آہنندی۔ البیس
 کا لقب۔ ج۔ شَرِيْرُونَ۔
 اِلِشْرَارَةٌ۔ پیرو وغیرہ سکھانے کی چٹائی۔
 اونٹوں کا بڑا گلہ۔ خشک گوشت کا ٹکڑا۔
 ج۔ اَشَارِيْرُ۔
 الشَّرَاتُ۔ مجھ کے مشابہ ایک کپڑا جو چہرہ
 کے سامنے بغیر کانٹے کے اڑتا ہے۔
 جھنگا۔ واحد شَرَاتٌ تَهُ۔
 شَرِبَ دَس، شَرَبَا وَشَرَبَا وَشَرَبَا وَ
 مَشَرَبَا وَتَشَرَبَا۔ الماء۔ پانی پینا۔
 پانی کا گھونٹ لینا۔ سیراب ہونا: اَكَلَ
 عَلَيْهِ الدَّهْرُ وَشَرِبَ: وہ ہلاک ہو گیا
 "اَكَلَ فَلَانٌ مَا لِي وَشَرِبَہُ"۔ فلاں
 میرا مال کھاپی گیا۔ فنا کر دیا۔
 شَرِبَ (ر) شَرَبَا۔ پیاسا ہونا۔ پیاسے
 یا سیراب اونٹوں والا ہونا (مند)۔
 شَرِبَ یہ۔ کسی پر جھوٹ بولنا۔
 شَرِبَ (ن) شَرَبَا۔ الکلام۔ کلام سمجھنا
 شَرِبَہُ۔ پانی پلانا۔ نئی مشک بر مٹی اور پانی
 ملنا تاکہ اس میں پانی خوشگوار رہے۔
 قَضَبُ الزَّرَجِ۔ کھیتی کے ڈنٹھل کا
 سیراب ہونا۔ اَلْمُسْتَبَلُّ الدَّقِيقُ۔
 کھیتی کی بالیوں میں گودا آنا۔
 اَشَرَبَہُ۔ پلانا۔ اَشَرَبَ الرَّجُلُ۔ پیاسا
 ہونا۔ پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔



وَضَدَ اللَّوْنِ - گہرا رنگنا۔ الثَّوْبُ حُمْرَةً - کپڑے کو سرخ رنگنا۔ بَدَلَهُ - کسی پر جھوٹ بولنا۔ اَشْرَبْنِي مَا لَمْ اَشْرَبْ - اس نے میرے بارے میں ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کو میں نے نہیں کیا۔ الْإِيْلَ - اونٹ باندھنا۔ اَشْرَبْتُ حَبْ خَلْدٍ - اس کے دل میں فلاں کی محبت بیٹھ گئی۔

شَارِبَةُ مُشَارِبَةٍ - شارباً - ساتھ پینا۔ تَشَارَبَا - ایک دوسرے کے ساتھ ہونا۔ تَشْرَبُ - الثَّوْبُ الْعَرَقَ - کپڑے کا پسینہ چوسنا۔

اِسْتَشْرَبَ - تَوْنَهُ - رنگ کا تیز اور گہرا ہونا۔ اَشْرَابَتْ - لِلشَّيْءِ وَالْكَبِدَ - گردن لمبی کر کے کسی کی طرف دیکھنا۔

الشَّرْبُ - مِمَّ - "شَارِبٌ" اسم فاعل کی جمع۔ اَلشَّرْبُ مِمَّ - پینے کا پانی۔ پانی کا حصہ۔ گھاٹ۔ پینے کا وقت۔ ج۔ اَشْرَابٌ -

اَلشَّرْبَةُ - جو یکبارگی پیا جائے۔ جو ایک سانس میں پیا جائے۔ ایک بار پینا۔ اَلشَّرْبَةُ - چہرہ کی سرخی۔ سیراب ہونے کے اندازہ کا پانی۔

اَلشَّرْبَةُ - زیادہ پینا۔ پیاس۔ گرمی کی تیزی۔ ج۔ شَرِبْتُ وَشَرَبَاتٌ - مَاءٌ شَرُوبٌ وَشَرُوبٌ - پینے کے قابل پانی۔ اَلشَّرِيبُ - بہت پینے والا۔ پینے میں ساتھی۔ ساتھ مل کر پانی لانے والا یا ساتھ پانی پلایا جانے والا۔ اونٹوں کو گھاٹ پر لانے میں ساتھی۔

اَلشَّرْبَةُ - گھاس والی زمین جس میں درخت نہ ہوں۔ وادی کا کنارہ۔ راستہ۔ اَلشَّرَابُ - ہر ایک پینے کی چیز۔ اَشْرَبَةُ اَلشَّرِبَةِ وَ اَلشَّرُوبُ وَ اَلشَّرَابُ - اَلشَّرِيبُ - بہت پینے والا۔ شراب کا

بہت دلدادہ۔ پکا شرابی۔

اَلشَّرَابَةُ - شَرَابٌ کا مؤنث۔ کوئی وغیرہ کا پھندا۔ ج۔ شَرَارِيْبُ - اَشْرَابَةُ اَلوَارِجِ - ایک پردہ۔

اَلشَّارِبُ - قَا - ج۔ شَرِبْتُ - جانوروں کی کمزوری۔ شَارِبُ الرَّجُلِ - مونچھ۔ دونوں طرف کا لحاظ کرتے ہوئے تشبیہ لاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ شَارِبَا الرَّجُلِ - اور اطراف و اجزاء کا اعتبار کرتے ہوئے جمع بھی لاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ "شَوَارِبُ الرَّجُلِ" - اَلشَّوَارِبُ - گلے کی رگیں۔ گردن میں پانی کی گذرگاہیں۔

اَلشَّارِبَةُ - مُؤْنَتِ اَلشَّارِبِ - ج۔ شَارِبَاتٌ وَشَوَارِبُ - دریا کے کنارے بسنے والی قوم۔

اَلشَّرُوبُ - پانی پینے والے۔ اَلشَّرَابِيُّ - سقم۔ ہشتی۔

اَلْمَشْرَبُ - پانی۔ پانی پینے کی جگہ اور آجکل خواہش نفس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں۔ "دَافَقَ اَلْأَمْرُ مَشْرَبَةً" - معاملہ اس کی خواہش کے مطابق ہوا۔

اَلْمَشْرَبَةُ وَ اَلْمَشْرِبَةُ - نرم ہمیشہ سرسبز رہنے والی زمین۔ پینے کی جگہ۔ پینے پلانے کا کرہ۔ ج۔ مَشَارِبُ -

طَافَمٌ ذُو مَشْرِبَةٍ - بہت پیاس لگانے والا۔ اور پانی پلانے والا کھانا۔

اَلْمَشْرِبَةُ - پانی پینے کا برتن۔ ج۔ مَشَارِبُ اَلْمَشْرُوبُ - مفع۔ ہر وہ شے جو پی جائے۔ اَلشَّرَابَةُ - سخت، پتیلی والا۔ شیر۔

شَرِبْتُ - اَلشَّرْبُ - ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اَلشَّرْبِيْنُ - چمڑھا کا درخت۔

شَرِئْتُ (رَسَ) شَرْتًا - اَلشَّرِئْتُ - يَدُهُ - سردی وغیرہ سے ہاتھ کی کھال کا پھٹنا۔

شَرِئْتُ الرَّجُلَ - پھٹے ہوئے ہاتھ والا ہونا۔ صفت (شَرِئْتُ) اَلتَّعْلُ - جوتے کا ترخانہ۔

اَلشَّرِئْتُ - ہر پرانی بوسیدہ چیز۔ اَلشَّرِئْتُ - مِنَ السُّيُوفِ وَ اَلْأَسِنَّةِ - تیز تلوار اور بھالا۔ اَلشَّرِئَةُ - پرانا ہوتا۔ شَرَّجَ (رَنَ) شَرَّجًا - جھوٹ بولنا۔

اَلشَّيْءُ - جَمْعُ كَرْنَا - اَلشَّرَابُ بِاَلْمَاءِ شَرَابٌ مِّنْ پَانِي مَلَانَا (وَشَرَّجَ وَ اَشْرَجَ) اَلْجَارَةُ - پتھروں کو ایک دوسرے سے ملا کر تہہ رکھنا۔ اَلخَرِيْطَةُ - کناروں کو ملا کر باندھنا۔ وَشَرَّجَ اَلثَّوْبَ - لنگر مارنا۔ کپڑے کو دور دور ٹانگے لگا کر سینا۔ عوام شَرَّجَ بولتے ہیں۔

"اَشْرَجَ صَدْرَهُ عَلَى كَذَا" - کوئی بات دل میں چھپانا۔

شَرَّجَ - اَللَّحْظُ - گوشت میں چربی ملنا۔ شَارَجَهُ - مشابہ ہونا۔

تَشَرَّجَ - اَلشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ - ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا۔ مل جل جانا۔ تَشَارَجَا - ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔

اَلشَّرَجُ - اَلشَّيْءُ - چیز کا پھٹ کر دو ٹکڑے ہونا۔ اَلشَّرَجُ - مِمَّ - نوع۔ هَذَا اَشْرَجُ ذَاكَ - یہ اس کے مثل ہے۔ هُمَا اَشْرَجُ وَ اَحَدٌ - وہ دونوں ایک نوع کے ہیں۔ فسرہ۔

"اَصْبَحُوا فِي الْاَمْرِ شَرَجِيْن" - وہ کام میں دوڑنے ہو گئے۔ وہ دو فرقوں میں بٹ گئے۔ رزم زمین کی طرف پانی بہنے کی نالی۔ ج۔ شَرَاہُ وَ شُرُوحُ -

اَلشَّرَجَةُ - پانی کی نالی جو میدان کی طرف جاری ہو۔ وہ گڑھا جس میں کھال بچھا کر اس سے اونٹوں کو پانی پلایا جائے۔

اَلشَّرَجُ - وادی کی چوڑی جگہ۔ کاج۔ کمان۔ تَرَجْن - ج۔ اَشْرَاہُ -

www.waseemziyai.com

الشَّرِيعَةُ: مانند، مثیل، کلائی کے دوسراوی
ملکوں میں سے ایک ملک۔ وہ کلائی جس
سے دوکانیں بنائی جائیں۔ قوس
شیرینہ: بھی ہوئی کمان۔ ج۔
شَرَّاعِيَّةٌ: شراعیہ؟

الشَّرِيعَةُ: کھڑکے پتوں کا بنا ہوا گون۔
بالس کا ٹھکانہ جو دوکان کے دروازے پر
لگایا جائے۔ تیر کے پر کو ٹرنے کا پٹھا۔
الشَّرِيعَةُ: تلوں کا تیل۔ الشَّرَجِبُ:
عمرہ گھوڑا۔ لمبی ٹانگوں کا گھوڑا۔

الشَّرَجَبَانُ وَالشَّرَجَبَانُ: ایک قسم کا پودا
جو رنگائی کے کام میں آتا ہے۔
شَرَّه (ف) شَرَّه: اللَحْمُ: گوشت
کے لیے لیے ٹکڑے کا ٹنا۔ الْمُسْتَعْلَقَةُ:
مسئلہ کے گہرے مطالب کو کہنا۔ بیان
کرنا۔ الْكَلَامُ: کلام سمجھنا۔ الشَّيْءُ:
کہونا۔ کشادہ کرنا۔ حفاظت کرنا۔

صَدْرَهُ لِلشَّيْءِ: خوش ہونا۔
شئی: کسی چیز کی طرف رغبت ظاہر کرنا
شَرَّه: الشَّيْءُ: الگ الگ حصوں میں کاٹنا
علم تشریح اسی سے ہے۔ شَرَّه:
قِطْعَةُ اللَّحْمِ: گوشت کے
ٹکڑے کو چھوٹے چھوٹے پاروں میں کاٹنا
۔ الشَّيْءُ: کہونا۔ ظاہر کرنا۔

أَشْرَحَ: صَدْرَهُ: یعنی شَرَّه:
لِأَشْرَحَ: کشادہ ہونا۔ شَرَّه: اللَّهُ
صَدْرَهُ لِقَبُولِ الْخَيْرِ فَإِنَّ شَرَّه:
اللہ نے اس کے سینہ کو خیر قبول کرنے
کے لیے کشادہ کر دیا اور وہ کشادہ ہو گیا۔

الشَّرْحَةُ: گوشت کا ٹکڑا۔
الشَّرِيعَةُ وَالشَّرِيعَةُ: گوشت کا ٹکڑا۔
گوشت کا لمبا ٹکڑا۔ ج۔ شَرَّاعِيَّةٌ:
شَرْعِيَّة (ن) شَرْوَحًا: الصَّبِيءُ: بچہ کا
جران ہونا۔ صفت (شَرَّاعِيَّة) ج
شَرْعِيَّة (ن) شَرْوَحًا وَشَرْوَحًا:۔

نَابُ الْبَعِيرِ: دانت کلنا۔
الشَّرْعُ: مص۔ اصل۔ نوجوانی۔ اول امر۔
چیز کا اہم برا حصہ۔ ہم عمر۔ ہم بولی۔
شَرْخًا الرَّحْلُ: کماؤہ کا اٹکا چھلا
حصہ۔ فَلَانٌ لَا يَزَالُ بَيْنَ شَرْخِي
رَحْلِهِ: یعنی وہ ہمیشہ سفر ہی میں رہتا
ہے۔ اونٹ کے ہر سال کے بچے۔ ج۔
شَرْوَحُ:

الشَّرْخُوبُ: ریڑھ کی ہڈی۔ ج۔ شَرَّاعِيَّةٌ:
شَرْدَن، شَرْدَا وَشَرْدَا وَشَرْدَا
شَرْدَا: بدکنا چکنا۔ عَلَى اللَّهِ:
اللہ کی اطاعت سے نکلنا۔ صفت
(شَرْدَا) ج۔ شَرْدَا وَشَرْدَا:
ج۔ شَرْدَا: مُوَنَ: شَرْدَا: ج۔
شَوَارِدُ وَشَرْدَا: شَوَارِدُ: اللُّغَةُ:
نوادرات اور غیر مانوس الفاظ۔

شَرْدَا وَشَرْدَا: دھتکارنا۔ ڈرانا۔
بھگانا۔ شَرْدَا شَرْدَا: جمعیت کو
متفرق کر دینا۔ شَرْدَا: بھگانا۔ کسی
کے عیب لوگوں کو سننا۔
شَرْدَا: الْقَوْمُ: جانا۔ الشَّرِيدُ:
دھتکارا ہوا۔ بھگایا ہوا۔
الشَّرِيدَةُ: مُوَنَ: الشَّرِيدُ: چیز کا بقیہ
ج۔ شَرْدَا:

الشَّرْدَا: موٹا نرم پیلے گوشت والا۔
شَرْدَا: الْجَمْعُ: متفرق کرنا۔
الشَّرْدَا: لوگوں کی چھوٹی سی جماعت۔
ج۔ شَرْدَا: شَرْدَا: ثِيَابُ
شَرْدَا: مچھلے کپڑے۔
شَرْدَا (ن) شَرْدَا: کاٹنا۔ صفت
(شَرْدَا) ج۔ شَرْدَا:
شَرْدَا: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ گالی دینا۔
غذاب دینا۔

شَرْدَا: بھگنا ہونا۔ الرَّجُلُ: جھگڑا
کرنا۔ دشمنی کرنا۔

أَشْرَذَ: ہلاکت اور سختی میں ڈالنا۔
الشَّرْدُ: مص۔ قوت۔ موٹائی۔ سختی۔ موٹا۔
سخت۔
أَشْرَذَ: اسم مفعول۔ ہلاکت اور سختی۔
الشَّرْدَا: جمع شَرْدَا: وہ ہو لوگوں کو
سخت غلاب دیں۔

الشَّرْدَا: پانی نکلا ہوا دی۔ ج۔ شَوَارِدُ
وَشَوَارِدُ:
المُتَشَارِدُ: فاعل۔ سخت۔ بدخلق۔
المُتَشَرَّدُ: مفعول۔ بندھا ہوا۔ ٹٹے ہوئے
کناروں والا۔

شَرَسَ (ن) شَرَسَا وَشَرَسَا وَشَرَسَا:
بدخلق ہونا۔ صفت (شَرَسَا) وَشَرَسَا:
أَشْرَسَ:

شَرَسَا (ن) شَرَسَا: سخت کلامی سے
جلانا۔ النَّاظَةُ: اونٹنی کو ہمارے کھینچنا۔
شَرَسَا: شَرَسَا: شَرَسَا: کسی کے
ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا۔

تَشَارَسَ: الْقَوْمُ: آپس میں دشمنی رکھنا۔
شَرَسَا (ف) شَرَسَا: المَاشِيَةُ: مویشی
کا خوب چرنا۔

الشَّرَسُ وَالشَّرَسُ: مص۔ روا (الشَّرَسُ)
کانٹے دار چھوٹے پودے۔
الشَّرَسَا: سفید پتلا پتلا بادل۔

الشَّرِيسُ: مص۔ بدخلق۔ بڑا جھگڑا۔ قَدْ
لَان شَرِيسَةً: اس کی بد مزاجی کچھ
ہلکی ہو گئی۔ شَرِيسُ الْأَكِيلِ: بہت
کھانے والا۔ الشَّرِيسُ: شیر۔

الشَّرِاسُ: مص۔ سرپس۔
شَرَسَا شَرَسَا: بدخلق ہونا۔
الشَّرَسَا: پسلیوں کا وہ کنارہ جو پیٹ
کی جانب ہوتا ہے۔ بندھا ہوا اونٹ۔
سختی کا آغاز۔ مصیبت۔ ج۔
شَرَسَا:

شَرَسَا: الشَّيْءُ: چارٹنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا



کاٹ کر جھاڑنا۔ السَّكِينُ۔ چھری کو
پتھر پر تیز کرنا۔ المَائِشِيَةُ النَّبَاتُ۔
موشی کا گھاس چرنا۔
تَشْوِشُ۔ جھٹکا۔ بکھڑا۔ متفرق ہونا۔
الشَّرْشُورُ وَالشَّرِيشُورُ۔ زمین پر پھیلی ہوئی
ایک قسم کی بیل۔ واحد شَرْشُورَةٌ
بِشَوَاءٍ شَرْشُورٌ۔ وہ جھٹکا ہوگا گوشت
جس سے چربی قطو قطو ٹپکتی ہو۔
الشَّرِيشُورَةُ۔ ایک قسم کی گھاس۔ ہر چیز
کا لکڑا۔
الشَّرَاشِيرُ۔ نفس۔ تمام بدن۔ اَنْقَى
عَلَيْهِ شَرَّاشِيرَةٌ۔ اس نے اس سے
اس قدر محبت کی کہ اپنی جان تک کو
اس کی محبت میں ہلاک کر دیا۔ بوجھ۔
شَرَّاشِيرُ الدَّنْبِ۔ دُم کے اطراف۔
الشَّرِيشُورُ۔ ایک قسم کی چھوٹی چڑیا۔
شَرْصَةٌ (دَن) شَرْصًا۔ کھینچنا۔
شَرْصَةٌ وَشَرْصَةٌ۔ بکلا بکلا۔ گالی دینا۔
الشَّرْصُ۔ مص۔ سختی۔ کھوپڑی۔
الشَّرْمُ۔ کپڑی۔ ج۔ شَرْمًا وَشَرْصَةً۔
شَرَطَ (دَن) شَرَطًا۔ عَلَيْهِ فِي بَيْعٍ وَ
نَحْوِهِ۔ شرط لگانا۔ الْجِلْدُ۔
جلد میں نشتر لگانا۔
شَرَطَ (دَن) شَرَطًا۔ کسی بڑے مشکل کام
میں پڑنا۔
شَرَطَ۔ اَلْجِلْدُ۔ نشتر لگانا۔ الشَّيْءُ۔
باندھنا۔ مضبوط کرنا۔
شَارَطَ۔ ایک دوسرے سے شرط باندھنا۔
أَشْرَطَ۔ اَلْإِذِلَ۔ فروخت کرنے کے
لیے اونٹ کو نشان لگا کر علیحدہ کرنا۔
اَلْبَيْتُ رَسُوْلًا۔ کسی کی طرف جلدی
سے اپنی بھیجنا۔ نَفْسُهُ اَوْ مَالُهُ
فِي اَمْرِ۔ جان و مال کو کسی امر میں
پیش کرنا۔ نَفْسُهُ لِكَذَا۔ تیار کرنا
آمادہ ہونا۔ بِالشَّيْءِ وَفِيهِ۔ ہلکا

سمجھنا اور شرط لگانا۔
تَشَرَّطَ۔ فِي الْعَمَلِ۔ اچھی طرح غور کرنا۔
خود پر غواہ مخواہ قیود لگانا۔
تَشَارَطَ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کے
ساتھ شرط لگانا۔ تَشَارَطُوا عَلَى
الشَّيْءِ۔ شرط لازم کرنا۔
اِسْتَشَرَطَ۔ لَكَ لِكَذَا۔ شرط لازم طھرانا۔
اِسْتَشَرَطَ۔ الْمَالُ۔ مال کا درستی کے بعد
غواب ہونا۔
الشَّرْطُ۔ مَص۔ زَوْم۔ عہد نامہ۔ ج۔ شَرْطًا
کینہ، بیچ۔ ج۔ اَشْرَاطُ۔
الشَّرْطُ۔ مَص۔ علامت، نشان۔ ہر چیز کا
شروع۔ ہر چھوٹی نالی۔ گھٹیا حقیر مال۔
چھوٹے چھوٹے مال۔ ج۔ اَشْرَاطُ۔
اَلْاَشْرَاطُ۔ ذیل لوگ۔ اشراف (مند)
الشَّرْطَةُ۔ شرط۔ میدان جنگ میں سب
سے پہلے اترنے والا فوجی دستہ۔
شَرْطَةُ كُلِّ شَيْءٍ۔ عمدہ و بہترین
(د۔ وَالشَّرْطُ) شَرْطًا۔ کا واحد۔
شَرْطُ۔ والی کے اعوان و مددگار۔
آج کل تلواروں کو کہتے ہیں۔
الشَّرْطُ۔ میدان کارزار میں سب سے
پہلے اترنے اور اپنی جان دینے والا
فوجی دستہ۔
الشَّرْطِيَّةُ۔ مشروط کھجور کی بیٹی ہوئی رسی۔
عورت کی خوشبو وغیرہ رکھنے کی ڈبیر۔
ج۔ شَرْطُ۔
الشَّرْطِيَّةُ۔ شرط۔ پھٹے ہوئے کان والا اونٹ
ج۔ شَرَايِطُ۔
أَشْرَطَ۔ النَّاسُ۔ لوگوں میں ذیل ترین
آدمی۔
اَلْمَشْرُطُ وَالْمَشْرَاطُ وَالْمَشْرَطَةُ۔ نشتر۔
ج۔ مَشَارِطُ وَمَشَارِيطُ۔
شَرَعَ (دَن) شَرْعًا۔ يَلْقَوْنِمْ۔ قوم کے
لیے قانون بنانا۔ لَهُمُ الطَّرِيقُ۔

راستہ چلنا یا اس کو ظاہر کرنا۔ الرَّجُلُ۔
حق ظاہر کرنا۔ باطل کو مٹانا۔ الْبَيْتُ۔
گھر کا لب و لہجہ ہونا۔ الْبَابُ إِلَى
الطَّرِيقِ۔ دروازہ کو راستہ کی جانب
کھولنا۔ الْحَبْلُ۔ رسی کھول کر اس
کے دونوں کناروں کو کڑے میں ڈالنا۔
الشَّيْءُ۔ چیز کو بہت اونچا کرنا۔
شَرَعَ (دَن) شَرْعًا وَشَرْعًا۔ فِي الْمَاءِ۔
پانی میں گھسنا یا پانی کو چلو سے پینا۔
الْوَارِدُ۔ پانی کو منہ لگا کر پینا۔
اَلْمَائِشِيَةُ۔ موشی کو پانی پر لانا۔
اَلزَّمَرُ۔ کام شروع کرنا۔ فِي الْاَمْرِ
کام میں مشغول ہونا۔ اَلرِّصَاحُ۔ نیزہ
کو سیدھا کرنا۔ اَلطَّرِيقُ۔ راستہ
کا واضح کرنا۔ يَهْدِيكَ اِلَى الْوَارِدِ۔ کسی کو پانی پر
لانا۔ فَلَانٌ عَلَيْنَا۔ قریب ہونا اور
جھانکنا۔ شَرَعَ يَضْرِبُ۔ وہ مارنے
لگا (دفعہ مقارب)
شَرَعَ وَاشْرَعَ۔ اَلطَّرِيقُ۔ راستہ
ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔ هُوَ فِي الْمَاءِ۔
پانی میں داخل کرنا۔ شَرَعَ الْحَبْلُ۔
رسی کی گرہ کھولنا۔ شَرَعَ السِّفِينَتَيْنِ
کشتی میں باوبان لگانا۔ اَشْرَعَ
بَابَهُ اِلَى اَوْ عَلَى الطَّرِيقِ۔ دروازہ
کو راستہ کی طرف کھولنا۔ اَشْرَعَ
عَلَيْهِ الرُّوحُ۔ اس نے اس کی طرف
نیزہ سیدھا کیا۔ اَشْرَعَ الشَّيْءُ۔
کسی چیز کو بہت بلند کرنا۔
اِسْتَشْرَعَ۔ قَانُونُ بَنَانَا۔ شریعت نافذ کرنا۔
الشَّرْعُ۔ مَص۔ شریعت۔ مذہبی قانون۔
شَرَعَكَ مَا يَلْعَنُكَ الْمَجْلُ۔ تمہارے
لیے اسی قدر زور و راہ کافی ہے جو تم کو
منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس
کسوت سے اس شخص کو خطاب کیا جاتا
ہے جس کو بقیہ کفایت مبر کرنے کی نصیحت



کی جگہ (۱) والشرع والشرع (۲) مثل
برابر۔ کہتے ہیں: "الناس في هذا شرع"
واحد۔ لوگ اس میں سب برابر ہیں۔
الشرع۔ جو تے کا تسمہ۔
الشرعة والشرعة۔ کان کی زہ۔ کان
کی تانت۔ الشرعة۔ بھڑ بھڑکار
کرنے کا جال۔ شریعت۔ مشن۔ پانی کی
جانب راستہ۔ عادت۔ جہ۔ شرع و
شرع و شرع۔
الشرعة۔ کشتی۔ جہ۔ اشراع۔
الشریعہ بہادر۔ عمدہ کتان۔ من اللیف۔
درخت خرمائے سخت چھینے والے کاٹھے۔
الشریعیۃ۔ اسلامی قانون۔ مذابی احکام۔
ضابطہ۔ دلیلی۔ چوکھٹ۔ کنارہ دریا پر
بنے والوں کا گھاٹ۔ جہ۔ شرایع۔
تھرو الشریعیۃ۔ دریائے اردن۔
الشارع۔ فا۔ مؤنث۔ شارعة۔ جہ
شروع و شروع و شوارع۔ بلیت شارع۔
وہ گھر جس کا دروازہ سڑک پر ہو۔ و
الشارع۔ جہ۔ شوارع۔ عام راستہ
بہت چلتی ہوئی سڑک۔ و ماسہ
شارعہ و شوارع۔ سیدھے کیے
ہوئے نیزے۔ الشوارع من
النجوم۔ ڈوبنے کے قریب ستارے
انف اشراع۔ لمبے بانسے کی ناک۔
الشرع۔ ہر نصیب کی ہوئی اور اٹھائی ہوئی
چیز۔ مثلاً کشتی کا بادبان۔ کسان کی
تانت۔ اونٹ کی گردن جہ۔ اشريعة
و شرع۔
الشراعة۔ دلیری۔ الشرع۔ عمدہ کتان
کا بیچنے والا۔
الشرعی۔ موافق شرع۔ الشرایع۔
لمبی گردن کا اونٹ۔
الشرایع۔ لمبے نیزے۔ ایک نیزے بنانے
والے کی طرف منسوب

الشرع والشرعة والشرعة۔ پانی کا
گھاٹ۔ جہ۔ مشارع۔
الشرع۔ من البیوت۔ اونچا مکان۔
الشرع۔ سیدھا کیا ہوا۔ جس کو شریعت
نے جائز قرار دیا ہو۔ والامر
الشرع۔ شروع کیا ہوا کام۔
شرع۔ الادیع۔ چڑے کو لمبائی
میں کاٹنا۔
الشرع۔ لمبا۔ الشرعی۔ ایک قسم کی
چادر۔ خوبصورت جسم کا لمبا آدمی۔
شرقة (ن) شرفا۔ شرف میں غالب
آنا۔ صفت مفعول (مشرؤف)
۔ الحائط۔ دیوار پر کنگرہ بنانا۔
شرف (ن) شرافۃ و شرفا۔ دین یا
دنیا میں بلند رتبہ والا ہونا۔ شریف ہونا۔
شرفیت النافۃ شرفا۔ بوڑھی
ہونا۔
شرف (ن) شرفا۔ بلند ہونا۔
شرافۃ۔ شرافت و بزرگی میں مقابلہ کرنا۔
شارف المکان۔ چڑھنا۔ الشی۔
اوپر سے جھانکنا۔ قریب ہونا۔
شرفۃ۔ بزرگی دینا۔ عزت کرنا۔ شرف
البیت۔ گھر کے کنگرے بنانا۔
المکان۔ چڑھنا۔
اشرف۔ الشی۔ بلند ہونا۔ کھڑا ہونا۔
المکان۔ چڑھنا۔ علیہ
اوپر جھانکنا۔ لک الشی۔ ممکن ہونا
قدرت و طاقت میں ہونا۔ علی الموت
قریب المرگ ہونا۔ علیہ۔ ڈرنا یا
مہربان و شفیق ہونا۔ اشرفیت
الخیل۔ گھوڑوں کا تیز دوڑنا۔
نفسہ علی الشی۔ حریص ہونا۔
بلاک ہونا۔
تشرؤف۔ البیت۔ گھر کا کنگرے والا
ہونا۔ الرجل۔ شرف پانا۔ بگنا

اپنے لیے باعث شرف جاننا۔ المکان۔
چڑھنا۔ الشی۔ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر
کسی چیز کی نظر اٹھا کر دیکھنا۔ الشی۔
جھانکنا۔ علی الشی۔ اوپر سے
جھانکنا۔
تشرؤف۔ القوم۔ قوم کے عزت دار
لوگوں کا قتل ہونا۔
اشترؤف۔ سیدھا کھڑا ہونا۔
استشرؤف۔ سیدھا کھڑا ہونا۔ الشی۔
ابر و پرا پھڑک کر کسی چیز کی طرف نظر اٹھا
کر دیکھنا۔ استشرؤف۔ حقیقت
کسی کا حق مار لینا۔ الشاة۔ بے عیب
بکری کو تلاش کرنا۔
الشرف۔ مص۔ بلندی و بزرگی۔ خاندانی
شرافت۔ جہ۔ اشراف۔ بلند مکان
ناک۔ شرف البعیر۔ اونٹ کا
کولہاں
الشرف۔ شریف۔
الشرفۃ۔ خاندانی شرافت۔
الشرفۃ۔ من القصیر۔ محل کا کنگرہ۔
جہ۔ شرف۔ الشرفۃ من المال۔
مال کا عمدہ حصہ۔
الشرفۃ۔ شرفات۔ کا واحد۔ مثلث یا
مربع برجیاں جو شہر پناہ یا محل کے
اوپر ہی حصہ میں بنائی جاتی ہیں۔
الشارف۔ فا۔ عنقریب صاحب شرف
ہونے والا۔ سہم شارف۔ پرانا
تیر۔ دن شارف۔ پرانی شراب کا
مٹکا۔ من النوق۔ بوڑھی اونٹنی
جہ۔ شرف و شرف و شرف
و شرف۔
الشارفۃ۔ بوڑھی اونٹنی جہ۔ شرافۃ
و شوارف۔
الشوارف۔ شراب کے برتن۔ الشریف
شرف عزت والا۔ جہ۔ شرفاء و

أَشْرَافٌ - مؤنث - شَرِيفَةٌ - ج
شَوَائِفٌ وَشَرِيفَاتٌ - أَشْرَافُ
الْإِنْسَانِ - انسان کے کان - ناک -
الْأَشْرَافُ - اسم تفضیل - چمکاؤ - قَصُورُ
أَشْرَفٌ - مؤنث - شَرَفَاءٌ - ج
شَرَفٌ - کنگرہ دار یا برجی والا محل -
رَجُلٌ أَشْرَفٌ - بلند کاندھ والا
آدمی - مَمْلُوكٌ أَشْرَفٌ - بلند
مؤنثہا -
الشَّرَفَاءُ - أَشْرَفٌ کا مؤنث - مِنْ
الَّذِينَ - لمباکان -
المُشْرِفُ - مِنْ الْأَمَاكِينِ - بلند جگہ -
المُشْرِفُ - جھانکنے کی جگہ - ج - مَشَارِفُ
مَشَارِفُ الْأَرْضِ - زمین کے بلند
مقامات
المُشْرِفِيُّ - عرب کے ان دیہات کی طرف
نسب جو شام کے علاقہ کے قریب
ہیں اور جن کو مَشَارِفُ الشَّامِ -
کے نام سے یاد کرتے ہیں - سَيْفٌ
مَشْرِفِيٌّ - مشرقی علاقوں کی بنی
ہوئی تلوار -
المُسْتَشْرِفُ - بلند -
شَرْق (ن، شَرْقًا - النِّقَاطُ - بکری کا کا
لبائی میں پھرنا - صفت مفعولی
(شَرْقَاءُ) - الثَّمَرُ - پھل چننا -
توڑنا -
شَرَقْتُ (ن، شَرَقًا وَشَرُوقًا - الشَّمْسُ
سورج کا نکلنا - النُّخْلُ - درخت خرم
پر کھجور کا گدر ہونا -
شَرِقَ (ن، شَرْقًا - بِرِّيْقًا - تھوک
سے گلا گھٹ جانا - شَرِقْتُ
عَيْنُهُ - آنکھ کا سرخ ہونا - لَوْنُهُ
شرم سے سرخ ہونا - الجَرَسُ بِالْذَّمِ -
زخم کا خون سے بھرنے والا - الدَّمُ فِي
عَيْنَيْهِ - آنکھ میں خون ظاہر ہونا -

الْمَوْضِعُ بِأَهْلِهِ - کسی جگہ کا لوگوں
سے بھر کر تنگ ہونا - الشَّمْسُ -
سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا -
الْمَشِيُّ - مخلوط ہونا - الارضُ زین
کا پانی جاری ہونے کے قابل ہونا -
النِّقَاطُ - بکری کے کان کا لمبائی میں
چرا ہوا ہونا -
شَرَّقِيٌّ - مشرق کو روانہ ہونا - چمک دار
جمیل چہرہ والا ہونا - اللِّحْمُ -
گوشت کے پارچے بنا کر دھوپ میں
خشک کرنا - الْبَنَاءُ عَارِتٌ کو
چونے وغیرہ سے لیپنا - الْمَشِيُّ
بِالزَّغْفَرَانِ - زعفران میں رنگنا -
الشَّرَقَاتُ - الشَّمْسُ - سورج کا طلوع
کرنا اور چمکنا - أَشْرَقَ وَجْهَهُ لَمْ -
چہرہ کا چمکنا ہونا - المَكَانُ - سورج
کی چمک سے روشن ہونا - الرَّجُلُ -
طلوع آفتاب کے وقت داخل ہونا -
أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ الْمَكَانَ - روشن
کرنا - الثَّوبُ فِي الصَّبْغِ - کپڑے
کو گہرا رنگنا -
أَشْرَقَتْ - بِرِّيْقَةٍ - اچھولگانا - النُّخْلُ -
درخت خرم پر کا گدر ہونا -
تَشَرَّقَ - دھوپ میں بیٹھنا -
أَشْرَقَتْ - الْقَوْسُ - کان کا پھٹنا -
إِشْرَاقَتْ إِشْرَاقًا - الْعَيْنُ
بِالدَّمْعِ - آنکھ کا آنسوؤں سے
ڈبڈبانا - سُرْخَ ہونا -
الشَّرْقُ - م - سورج - سورج کے نکلنے
کی جگہ پھین - ج - أَشْرَاقٌ -
المَشْرِقُ - دروازے کی دھڑ سے آنے
والی روشنی -
الشَّرْقُ - م - آفتاب -
الشَّرْقَةُ - شَرْقِیُّ کا اسم مرہ - سردی کے
موسم میں دھوپ کی بیٹھنے کی جگہ -

(ر وَالشَّرْقَةُ) چڑھنے کے وقت
کا سورج -
الشَّرِيقُ - طلوع ہونے والا آفتاب -
فول صورت لڑکا - ج - شَرْقٌ -
التَّشْرِيقُ - م - أَيَّامُ التَّشْرِيقِ - عید الضحی
کے بعد کے تین دن جن میں گوشت
خوشک کیا جاتا ہے - نماز عید -
الشَّارِقُ - نکلتا ہوا سورج - سورج کے
سواستاروں پر بھی اس لفظ کا اطلاق
ہوتا ہے - پہاڑ وغیرہ کا مشرقی پہلو -
ج - شَرْقٌ -
الشَّارُوقُ - چونے کا پسٹر - راکھ لاپھو
ہونا -
المَشْرِقُ وَالْمَشْرِقُ وَالْمَشْرِقُ - سورج
کے طلوع ہونے کی جگہ یا سمت - ج -
مَشَارِقُ -
المَشْرِقَةُ وَالْمَشْرِقَةُ وَالْمَشْرِقَةُ وَ
المَشْرِقُ وَالْمَشْرِقُ - موسم سرما
میں دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ مَشْرِيقُ
البَابِ - دروازہ کی دروازے میں سے
طلوع آفتاب کے وقت دھوپ اندر
آئے -
المَشْرِقُ - مفع - چونے سے پسٹ کیا ہوا -
الشَّرْقُ وَالشَّرْقُ وَالشَّرْقُ وَالشَّرْقُ
وَالشَّرْقُ - ایک چھوٹا پرندہ عوام
اس کو شَرْقُ کہتے ہیں -
شَرَكْتُ (ن، شَرْكًَا - النُّعْلُ - جوتے
کا تسمہ ٹوٹنا -
شَرَكْتُ (ن، شَرْكًَا وَشَرْكًَا وَ
شَرَكْتُ - شَرِكٌ ہونا -
شَرَكْتُ - النُّعْلُ - جوتے میں تسمہ لگانا -
أَشْرَكْتُ - فِي أَمْرٍ - کسی کو اپنے کام میں
شریک کرنا - أَشْرَكَ بِاللَّهِ - اللہ کے
لیے شریک ٹھہرانا - صفت دُشْرِكٌ وَ
مُشْرِدِيٌّ - اسم شرک - النُّعْلُ -

جو تے میں تسمہ لگانا۔

شَارَكَهُ وَتَشَارَكََا۔ باہم شریک ہونا۔ ایک دوسرے کا حصہ دار بننا۔

اِشْتَرَاكَ۔ الأمر کسی امر کا مشتبہ ہونا۔

اِشْتَرَكَ الْقَوْمُ فِي كَذَا۔ باہم شریک ہونا۔

الشُّرُكُ۔ شُرُكٌ وَاشْرُكٌ کا اسم۔ شریک حصہ۔ جہ۔ اَشْرَکَ۔

الشُّرُكَةُ۔ حصہ۔ شریک کا حصہ۔ دو یا زائد حصوں کا اس طرح مل جانا کہ آپس میں تمیز نہ ہو سکے۔ عقد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

الشُّرُكُ۔ شکار کرنے کا پھندا۔ جال۔ جہ۔ شُرُكٌ وَاشْرَکٌ۔ سڑک پر جانوروں کے پاؤں کے نشانات۔ واحد دَشْرُکَةٌ۔

الشُّرَاکُ۔ پشت قدم پر رہنے والا جو تے کا تسمہ لگھاس کی ایک ٹہنی جہ اَشْرُکٌ وَشُرُکٌ۔

الشُّرُکِيُّ وَالشُّرُکِيُّ تیز چال و رفتار۔ لَطَمَهُ لَطْمًا شُرُکِيًّا۔ اس نے لگاتا تیزی سے پھرمارے۔

الشُّرُکُ۔ شریک۔ ساھی۔ جہ۔ شُرُکَاؤُ وَاشْرَاکُ۔ مؤنث۔ شُرُکَاةٌ۔ جہ۔ شُرَاکُ۔

المُشْتَرُکُ۔ منع۔ وہ چیز جس میں دو یا کئی کی شرکت ہو۔ لَفْظُ مُشْتَرُکٍ۔ وہ لفظ جس کے معانی کئی ہوں۔ جیسے عین رَجُلٌ مُشْتَرُکٌ۔ اپنے جی میں باتیں کرنے والا۔

شَرَمَ دُخْنٌ شَرْمًا۔ اِشْرَی۔ بھاڑنا۔

الْأَنْفُ۔ ناک کا بالہ کا ٹٹا۔ الشُّرُودُ۔ تریڈ کو اطراف سے کھانا۔ لَفْلَافٌ مِنْ مَالٍ۔ کسی کو اپنے مال سے کچھ دینا۔

شَرَمَ دُخْنٌ شَرْمًا۔ کٹی ہوئی ناک والا ہونا۔

صَفَتْ (اَشْرَمَ) مُؤَنَّثٌ شَرْمًا۔ جہ۔ شَرْمٌ۔

شَرَمَ۔ بھاڑنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

تَشَرَّمَ وَاشْرَمَ۔ پھٹنا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ شَرَمَ الصَّيْدُ۔ شکار کا زخمی ہو کر بھاگ جانا۔

الشَّارِمُ۔ خاک۔ نشانہ کے پہلو کو چھیدنے والا تیر۔

الشَّرْمُ۔ مص۔ کھاری۔ سمندر کا گہرا حصہ۔ ایک قسم کا درخت۔ جہ۔ شَرُومٌ۔

شَرُونَ (دُن) شَرْنَا۔ المَصْحَرُ۔ چٹان کا پھٹنا۔

الشَّرْتُ۔ شکاف۔ الشَّرْبِثُ وَالْمَشْرَبْدُ۔ سخت موٹے ہاتھوں والا۔

شَرَفَ۔ الذَّرْعُ کھیت کے بڑھے ہوئے پتوں کو چھانٹنا۔

شَرَّقَ۔ الشَّيْءُ۔ کاٹنا۔ الشَّرَائِقُ۔ سب کی اتاری ہوئی کچلی۔ ریشم کے ٹکڑے کا کوپا۔ واحد (شَرَقْلَةٌ)۔ ان کو فیالچ بھی کہتے ہیں۔ واحد (فَيْلَجَةٌ)۔

شَرَّةٌ (دُس) شَرَّهَا وَشَرَاهَةٌ۔ اِلَى الطَّعَامِ وَعَلَيْهِ۔ بہت خیریں ہونا۔ صفت (شَرَّةٌ وَشَرَّهَانٌ)۔

الشَّرَّهَاءُ۔ مِنَ الْيَسِينِ خَشک سال۔ الشَّرُّ وَالشَّرُّ۔ شد۔

شَرَى يَشْرِي شَرَاءً وَشَرَى۔ الشَّيْءُ۔ خریدنا۔ بیچنا۔ اللَّحْمُ وَالْثَوْبُ وَنَحْوَهُمَا۔ گوشت یا کپڑے کو سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھنا۔ بَنَفْسِيہ

عَنْ قَوْمٍ۔ پیش قدمی کر کے قوم کی طرف سے لڑنا۔ بادشاہ کے پاس قوم کی نمائندگی کرنا۔ دُ۔ ٹٹھا کرنا۔

رَجِيْدٌ کرنا۔ اَللَّهُ خَلَاْنَا۔ پتی اچھلنے

کی بیماری میں مبتلا کرنا۔ شَرَى يَشْرِي شَرَى۔ البَرَقُ۔ بجلی کا چمکنا۔ زَمَامُ الدَّابَّةِ۔ لگام کا بست ہونا۔ الرَّجُلُ غَضِبَ نَاک ہونا۔ اصرار کرنا۔ الْجِلْدُ۔ جلد پر پتی اچھلنا۔ صفت (شَرٍ)۔ الشَّرُّ يَبْهَتُ بِرَأْيِ بَيْلِنَا۔ الفَوْسُ فِي سَيْرِهِ۔ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ الْفَوْسُ فِي لِحَاظِهِ وَالْبَعِيرُ فِي زَمَانِهِ۔ کھینچنا۔

اَشْرَى۔ الزَّمَامُ۔ ہلانا۔ الشَّيْءُ۔ جھکانا۔ الْحَوْضُ۔ حوض بھرنا۔ البَرَقُ۔ بجلی کا چمکنا اور تیز کوندنا۔ بَيْنَهُمَا۔ لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنا۔ ان کو درغلانا۔ الْقَوْمُ۔ اطاعت سے باہر ہو کر خارجی جیسا ہونا۔

شَرَى۔ اللَّحْمُ أَوِ الثَّوْبُ وَنَحْوَهُمَا۔ گوشت یا کپڑے کے لیے دھوپ میں رکھنا۔ شَرَى يَشْرِي شَرَى۔ الدَّابَّةُ وَشَرَاءُ۔ الرَّجُلُ۔ خریدنا۔ بیچنا۔ تَشَارَى۔ تَشَارِيًّا۔ الرَّجُلَانِ۔ ایک دوسرے پر غضب ناک ہونا۔ ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔ تَشَرَّى۔ تَشَرَّىا۔ متفرق ہونا۔ غَوَارِجِ میں سے ہونا۔ اِسْتَشْرَى اِسْتَشْرَاءً۔ الْفَوْسُ فِي سَيْرِهِ۔ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ الرَّجُلُ فِي الْأَمْرِ۔ کسی امر میں اصرار کرنا۔ اِسْتَشْرَسَتْ الْأُمُورُ۔ کاموں میں ضروری اور مشکل ہونا۔ الرَّجُلُ۔ غضبناک ہونا۔ اِسْتَشْرَسَتْ اِسْتَشْرَاءً۔ گھبرانا۔ بَغْضَطٌ۔ اِشْرَی۔ اِنْدَرَانٌ۔ لَفْلَافٌ آدَمِیٌّ وَشَرَى۔ فُلَانٌ مِیْثَابٌ بَیْہُ ہے، اور



کڑوا بھی ہے۔ درخت خرما بونج سے اُگا ہو۔ واحد (شُرْبِيَّةٌ) الشَّرَاءُ۔ جر۔ أَشْرِيَّةٌ۔ وِرد الشَّرِي، خرید و فروخت۔

الشَّرَاءُ۔ جانب۔ طرف۔ الشَّرِي۔ پتی اچھلنے کی بیماری۔ پہاڑ راستہ۔ طرف۔ جانب۔ جر۔ أَشْرَاءُ دَخَلُوا أَشْرَاءَ الْحَرَمِ۔ وہ اطراف حرم میں آئے۔ وَالشَّرَاقَةُ مَالُ كَا عَمِدَةٍ يَأْتِي حَصَهُ۔

الشَّرِيُّ۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ اچھا بہت تیز رفتار گھوڑا۔

الشَّرْبِيَّةُ۔ مَوْنَتُ الشَّرِيِّ۔ طریقہ طبعیت الشَّرْوَى۔ مثل۔ ایک جیسا۔ مشابہ۔

رواح تشبیہ جمع ذکر مؤنث سب کے لیے کیساں مستعمل ہے، کہتے ہیں۔ "إِنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَرْوَى تَقْيِيرٍ" یعنی وہ تقیر کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں۔ یہ کم مائیگی کے لیے ضرب المثل ہے۔ فقیر وہ گڑھا جو کھجور کی ٹکھلی میں ہوتا ہے۔

الشَّرْيَانُ۔ وہ درخت جس سے کمائیں بناتے ہیں۔ وہ اچھلنے والی رگ جس میں سرخ خون دوران کرتا ہے۔

الشَّرْيَانَاتُ۔ بدن کی باریک باریک رگیں۔ الشَّرْدَى۔ فا۔ جر۔ شَرَاةٌ۔ خریدنے والا گاہک۔ خارجی۔

المُشَرَّحِيُّ۔ ایک سیارہ کا نام۔ خریدنے والا۔ ایک قسم کا پرندہ۔

شَرِيْفٌ۔ الذَّرْعُ۔ کھیتی کے بڑھے ہوئے ضرر رساں پتے چھانٹنا۔

شُرَزْنُ (رَضْنُ) شُرَاةٌ۔ بہت خشک ہونا۔ صفت (شُرُوْ شُرِيْزٌ)

شُرَبْدَن، وَشُرَبْدَن، شُرَبَا وَشُرُوْبَا۔ کھردرا ہونا۔ یا لاغر اور

خشک ہونا۔ صفت (شَارِبٌ) کہتے ہیں۔ رَجُلٌ شَايِبٌ شَارِبٌ۔

رنگ بدلا ہوا خشک و بلا آدمی۔ جر۔ شُرَبٌ وَشَوَارِبٌ۔

شُرَبٌ۔ الْفَرَسُ۔ گھوڑے کو لاغر کرنا۔ تَشَارِبٌ۔ الْقَوْمُ عَلَى الْمَاءِ وَغَيْرِهِ۔ ہر ایک کا اپنے حصہ کے لیے انتظار کرنا۔

الشَّرْبِيَّةُ۔ اسمرة۔ کمان جو نہ نئی ہو نہ پرانی۔ دہلی گدھی۔

الشَّرْبِيَّةُ۔ فرصت۔ الشَّرِيْبُ۔ ان گھڑ لکڑی۔ وہ کمان جو نہ نئی ہو نہ پرانی۔ جر۔ شُرُوْبٌ۔

الشَّرَبُ۔ علامت، نشان۔ شُرَزْنُ (رَضْنُ) شُرَا۔ الرجل والكيل۔

غصہ میں ترجیحی نظر سے دیکھنا۔ فَلَا تَأْ دَائِيْنَ بَائِيْنَ سَے نیرہ مارنا

نظر بدل گانا۔ شُرَزْنُ (رَضْنُ) شُرَا وَاسْتَشْرَزْنُ۔

الحَبْلُ۔ رسی بٹنا۔ اسْتَشْرَزْنُ الحَبْلُ۔ رسی کا بٹ جانا۔

اسْتَشْرَزْنُ الشَّيْءَ۔ بلند کرنا یا ہونا۔ أَشْرَزْرَةً۔ اللہ۔ ایسی مصیبت میری آنا

کہ اس سے خلاصی کی راہ نہ مل سکے۔ تَشْرَسَ۔ غضب ناک ہونا۔ لِقَاتَالِ۔

آبادہ پیکار ہونا۔ شَارَزَةً مُشَارَسَةً۔ دشمنی کرنا۔

تَشَارَسَ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کی طرف غصہ سے دیکھنا۔

الشُّزُرُ۔ مص سختی۔ دشواری۔ دھاگا ہوا ایک جیسا نہ ہو۔

الشُّزُرُ وَالشُّزْرَةُ۔ آنکھ کی سرخی۔ الشُّزْرُ۔ رُخ۔ عین

شُزْرَاءُ۔ غصہ کی وجہ سے رُخ آنکھ۔

شُزْنُ (رَضْنُ) شُزْنَا۔ الرجل۔ چست ہونا۔

تَشْرَنَ۔ الشَّيْءُ۔ سخت ہونا۔ دشوار ہونا۔ لَهْ فِي الْخُصُومَةِ۔ جھگڑے میں

درستی سے پیش آنا۔ لِلْسَّخْرِ۔ سفر کے لیے تیاری کرنا۔ (ر۔ تَشْرُنَا وَتَشْرِينَا) الرجل۔ پچھاڑنا۔

النَّشَاةُ۔ کبریٰ کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا۔

الشُّزْنُ۔ چوسر کھیلنے کا ٹہرہ۔ الشُّزْنُ وَالشُّزْنُ۔ سختی۔ طرف۔ جانب۔

دوری۔ زمین کی سختی۔ مِنَ الْعَيْشِ۔ زندگی کی تنگی و سختی۔ الشُّزْنُ۔ چوسر کا ٹہرہ۔

الشُّزُونَةُ۔ سختی۔ شُرَا يَشُرُوْ شُرُوَا۔ بلند ہونا۔

شُسْ (رَضْنُ) شُسُوْبَا۔ خشک ہونا۔ الشَّاسُ۔ لاغر، کمزور۔

الشَّسُّ۔ پتھر کے مانند سخت زمین۔ جر۔ شَسَّاسٌ وَشَسُّوسٌ وَشَسَّيْبٌ۔

شَسَّيْبُ (رَضْنُ) وَشَسَّيْبُ (رَضْنُ) شَسَّيْبًا وَشَسَّوْبًا۔ خشک اور دبلا ہونا۔ صفت

شَسَّيْبُ۔ جر۔ شَسَّيْبُ۔ الشَّيْبُ وَالشَّيْبِيُّ۔ مِنَ الْقِيَرِيِّ۔

پتلی لکڑی والی کمان۔ الشُّسُوْبُ۔ مِنَ النُّوقِ۔ وہ اونٹنی

جس کا بچہ جاڑے میں مر گیا ہو اور پھر وہ دودھ نہ دے۔

شَسَّعَ (رَضْنُ) شَسَّعًا وَشَسَّوْعًا۔ المَنْزِلُ۔ دور ہونا صفت (شَسَّوْعُ۔

جر۔ شَسَّعٌ وَشَسَّيْبٌ) (شَسَّعًا وَشَسَّعًا) (شَسَّعًا)۔ النُّعْلُ۔

ہوتے کے لیے تسمہ بنانا۔ وَشَسَّعَ الشَّيْءَ۔ دور کرنا۔

شَسَّعَ (رَضْنُ) شَسَّعًا۔ النُّعْلُ۔ ہوتے کا تسمہ لٹانا۔ یہ۔ دور کرنا۔

الشَّسَّعُ۔ جوق کا تسمہ۔ کہتے ہیں۔ اَذْنِي

<p>شَطْرَض (شططاً) زیادتی کرنا۔ حق سے دور ہونا۔ علیہ فی قولہ وحکمہ۔ ظلم کرنا۔ فی سلعتہ۔ مقررہ انداز سے آگے بڑھنا اور بیش قیمت کرنا۔ اَشَطَّ الشَّطَا و اَشْتَطَّ اَشْتَطَا۔ زیادتی کرنا اور حد سے آگے قدم رکھنا۔ حق سے دور ہونا۔ علیہ ظلم کرنا۔ شَطَط۔ زیادتی میں مبالغہ کرنا۔ شَطَاظہ۔ حد سے تجاوز کرنے میں مقابلہ کرنا۔ الشَّطْط۔ دریا کا کنارہ یا سمندر کا ساحل۔ شَطُوْط و شَطَان۔ کوئٹہ کا پہلو۔ شَطُوْط۔ شَطُوْط۔ الشَّطْلَةُ و الشَّطَاظَةُ و الشَّطَاظ و الشَّطَاظ۔ دُور۔ الشَّطَاظ و الشَّطَاظ۔ خوش فامتی اور اعضاء کا تناسب۔ الشَّطْلَةُ۔ اسم مرقہ۔ جَارِيَةٌ شَطْلَةٌ۔ خوش قامت تناسب الاعضاء، لوندی۔ الشَّطَاظ۔ فا۔ رجلٌ شَاظ۔ سڈول بدن کا آدمی۔ مَوْنُث۔ شَاظَلَةٌ۔ شَطَاظ (شططاً) شَطَاظ و شَطُوْطاً۔ کنارہ یا ساحل پر چلنا۔ الدَّائِيَةُ بِالْحَمَلِ جانور پر بوجھ لا دینا۔ خَلَاْنَا۔ مغلوب کرنا۔ الْأُمْرِيَا لَوْدِي۔ بچہ گراناد۔ وَاَشَطَّ الزَّوْرَعُ۔ کھیتی میں ہالی آنا۔ خوشہ نکلنا۔ اَشَطَّ الشَّجَرُ لِيْغُصُوْهُ۔ درخت کا ٹٹنی نکالنا۔ اَشَطَّ الرَّجُلُ۔ کسی کا زکام والا ہونا۔ اَشَطَّ الْوَادِي۔ وادی کا دونوں کناروں پر ہٹنا۔ شَطَا تَشْطِيْنَا۔ اَلْمُهْرُ۔ دریا کا دونوں کناروں پر ہٹنا۔ شَطَاظَا۔ ایک دوسرے کے ساتھ دریا کے کنارہ پر چلنا۔ الشَّطَا۔ کنارہ۔ جہ شَطُوْط۔ وَاَشَطَّ</p>	<p>معاہدہ کا سخت ہونا۔ المکان۔ کسی جگہ کا قحط زدہ ہونا۔ شَصَب (دن) شَصَبًا۔ الشَّاقۃ۔ بکری کا چمڑا اتارنا۔ اَشَصَبَ اللّٰهُ عَيْشَةً۔ زندگی کو تکلیف دہ بنانا۔ الشَّصِبُ و الشَّصِبُ۔ خشکی۔ الشَّصِبُ۔ سختی۔ خشک سالی۔ حصہ۔ جہ اَشَصَابُ۔ الشَّصِبُ۔ کھال کھینچی ہوئی بکری۔ عَيْشٌ شَصِبٌ۔ پرہیزگار زندگی۔ الشَّصِيْبُ۔ حصہ۔ مسافر۔ الشَّصِيْبَةُ۔ سختی۔ خشک سالی۔ کنویں کی گرائی۔ جہ شَصَابُ۔ الشَّصَابُ۔ پالان کی لکڑیاں۔ الشَّصَابُ۔ قصاب۔ قصائی۔ شَصَر (دن) شَصَرًا۔ النَّوْبُ۔ سلائی میں دور دور ٹانگے لگانا۔ فَلَاْنَا بِالْمَرْجِ نِزْرَ مَارَنَا۔ اَلْثَوْبُ۔ بیل کا کسی کے سینگ مارنا۔ الشَّصْرُ۔ مضبوط اور قابل حرکت ہرنی کا بچہ۔ ایک چھوٹا پرندہ۔ جہ اَشَصَاك۔ الشَّاصِرُ۔ فا۔ الشَّاصِرُ مِنَ الطَّيْرِ۔ مضبوط اور حرکت کرنے کے قابل ہرن کا چھوٹا بچہ۔ مَوْنُث۔ شَاَصِرَةٌ۔ جہ شَوَاَصِرُ۔ شَصَايَشُ و شَصُوْشُ و شَصِيْ يَشَصِي شَصِيًّا۔ البَصْرُ۔ نگاہ کا پھترانا۔ السَّحَابُ۔ بادل کا بلند ہونا۔ الْقُرْبَةُ۔ مشک کا پانی سے خوب بھر کر تن جانا۔ الْمَيْتَةُ۔ میت کے ہاتھ پیروں کا اٹھ جانا۔ اَشَصِي۔ بَصْرُهُ۔ ملکی ہانڈھنا۔ الشَّصُو۔ شدت۔ سختی۔ مسواک۔ شَطْر (دن) شَطَا و شَطُوْطاً۔ دور ہونا۔ خَلَاْنَا۔ دور کرنا۔ ظلم کرنا۔</p>	<p>مِنَ الشَّيْخِ۔ وہ جوتی کے تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تنگ زمین۔ کسی جگہ کا کنارہ۔ تھوڑا یا بہت مال (مرد) "هُوَ شَيْعُ مَالٍ"۔ وہ مال کا اچھا منظم ہے۔ جہ الشَّيْعُ۔ شَصَفَ (دن) و شَصَفَ (دک) شَصُوْفاً و شَصَاظَةً و شَصَاظَةً۔ دہلا سوکھا ہوا۔ صفت (شَاَصِفٌ و شَاَصِيْفٌ) الشَّيْئُ۔ خشک روٹی۔ الشَّيْفُ۔ کچی کھجور پر کر خشک کی ہوئی الشَّيْفُ۔ وہ شخص جس کا گوشت لاغری سے خشک ہونے لگا ہو۔ شَصَفَ (دن) و شَصَوْضًا و شَصَاظًا۔ النَّاقَةُ۔ اونٹنی کا بہت کم دودھ والی ہونا۔ الْمَجِيْشَةُ۔ تنگ گذران ہونا۔ الرَّجُلُ۔ دور ہونا۔ مَا أَدْرِي أَيْنَ شَصٌ۔ مجھے معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ شَصَدَ (دن) شَصًا و الشَّصَا۔ عَن كَذًا۔ منع کرنا۔ دور کرنا۔ اَشَصَّ الرَّجُلُ۔ دور چلا جانا۔ اَشَصَّتِ النَّاقَةُ۔ اونٹنی کا تھوڑے دودھ والی ہونا۔ الشَّصُ۔ مشاق پور۔ جہ شَصُوْضٌ و الشَّصُ۔ مچھلی پکڑنے کا کاٹنا۔ جہ شَصُوْضٌ۔ الشَّصُوْضُ۔ مِنَ النَّوْقِ أَوِ الشَّيْبَةِ۔ تھوڑے دودھ والی اونٹنی یا بکری۔ جہ شَصَصٌ و شَصَايَشٌ و شَصَاظٌ۔ سَنَةُ شَصُوْضٍ۔ خشک سال۔ "لَقِيَ اللّٰهُ عَنْكَ الشَّصَايَشُ"۔ اللہ تعالیٰ سختیوں کو تم پر سے ٹالے۔ شَصَبَ (دن) شَصُوْبًا و شَصِيْبٌ (دن) شَصَبًا۔ الْعَيْشُ۔ گذران کا تکلیف دہ ہونا۔ صفت (شَاَصِبٌ)۔ الْأَمْرُ</p>
--	--	--



کھیتی کے پتے۔ درخت خرم کے پودے
- مِنْ الشَّجَرِ۔ درخت کے گرد گرد
سے نکلنے والی شاخیں۔ ج۔ اَشْطَاءُ
النَّاطِقِ فَا۔ مِنْ الشَّجَرِ۔ دریا کا کنارہ
سمندر کا ساحل۔ ج۔ شَوَاطِئُ وَ
شَطَائِنُ۔
شَطَبَ (ن) شَطْبًا۔ الشَّيْءُ۔ کاٹنا یا
لمبائی میں پھاڑنا۔ هُ و شَطَبَ
قَوْقُلَهُ لِكَيْ يَهَيِّجَهُ الرَّجُلُ۔
دور ہونا۔ عَنهُ۔ (عراقی کرنا بیٹنا
- الرَّمْحُ عَنْ مَقْتَلِهِ۔ نیزہ کا
خطا کرنا۔

شَطَبَ جَسْمٍ مِّنْ عِلِّ تَشْرِيعِ كَرْنَا۔
تَشَطَّبَ۔ کٹنا یا چھننا۔ (الشَّطَبُ)
- المَاءُ وَنَحْوُهُ۔ پانی وغیرہ کا بہنا۔
الشَّطْبُ۔ م۔ لمبا۔ خوب صورت قد و
قامت کا آدمی۔ درخت خرم کی نازک
اور سبز شاخ۔ ج۔ شَطُوبُ۔
الشَّطْبَةُ۔ مِنَ النَّخْلِ۔ کھجور کی سبز
شاخ۔ تلوار۔ ج۔ شَطْبُ۔ غلط
نہایت پر کھینچی ہوئی لکیر۔ د۔ و
الشَّطْبَةُ۔ لمبی خوب صورت لڑکی
اچھے گوشت والا گھوڑا۔

الشَّطْبَةُ وَ الشَّطْبَةُ وَ الشَّطْبَةُ۔ وہ
خط جو تلوار کی دھار پر ہو۔ ج۔ شَطْبُ۔
الشَّطْبَةُ۔ اونٹ کی کولان کا لمبائی میں
کٹا ہوا ٹکڑا۔ ج۔ شَطَابُ۔
الشَّطَابُ۔ مختلف گروہ۔ شدائد مصائب
رجلٌ مُشَطَّبٌ۔ وہ شخص جس
کے چہرہ پر تلوار وغیرہ کے زخم کا
نشان ہو۔

شَطَرُونِ (ن) شَطْرًا۔ الشَّيْءُ۔ چیز کو دو
برابر حصوں میں کرنا۔ بَيَّنْتَ الشَّعْرَ
شَعْرًا نَصْفَ خَفِّ كَرْنَا۔ النَّاَقَةُ
أَوِ النَّاقَةُ۔ اونٹنی یا بکری کا نصف

حقن دو ہونا۔ شَطَرٌ شَطْرًا لِّأَنِ۔
اس نے اس کی جانب قصد کیا۔
شَطَرْتِ (ن) شَطْرًا۔ النَّاَقَةُ۔ اونٹنی
کے حقن کے ایک حصہ کا لمبا ہونا۔
شَطْرَ بَصَرٍ۔ ترجیاً یا بھیگنا دیکھنا۔
- الدَّارُ۔ دور ہونا۔ شَطْرًا (ن)
چالاک اور خبیث ہونا۔ شَطْرًا
شَطْرًا وَ شَطْرًا (ن) عَنَّهُ۔
جدا ہونا۔ دور ہونا۔ عَنِ أَهْلِهِ۔
شرارت سے برخلاف چلنا۔ إِلَيْهِمْ
متوجہ ہونا۔

شَطْرًا (ن) شَطْرًا۔ شَوْخٌ وَ بِيضٌ
ہونا۔ چالاک و خبیث ہونا۔
شَطْرًا (ن) النَّاَقَةُ۔ اونٹنی کے
ایک پستان کا دوسرے سے لمبا ہونا یا
ایک حقن کا سونکھ جانا۔

شَطْرَ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کے دو حصے کرنا۔
دو حصوں میں تقسیم کرنا۔ الشَّعْرُ۔
شعر کے ہر مصرعہ پر دوسرا مصرعہ بڑھانا۔
- النَّاَقَةُ بِالنَّاَقَةِ۔ اونٹنی کے نصف
حقن کو دو ہونا اور دوسرے کو چھوڑ دینا۔
شَطْرًا۔ مَا لَكَ۔ مال کو آدھا آدھا
تقسیم کر لینا۔ فَلَا تَأْكُلْ كَفَرٍ
کے پاس گھر رکھنا۔

الشَّطْرُ۔ جُزْءٌ۔ نصف، دوری، کنارہ۔
طرف بَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اپنا چہرہ مسجد
حرام کی طرف پھیر۔ ج۔ اَشْطَرُّ وَ
شَطْرُونٌ۔ کہتے ہیں۔ "حَلَبُ
أَشْطَرُ الدَّهْرِ" یعنی اس نے
زمانہ کو خوب آزمایا اور اس کی اچھائی
برائی سے واقف ہوا۔ هَذَا أَجْلَبُ
لَكَ شَطْرًا۔ یہ ایسا کام ہے
جس میں فریقین کے لیے نفع ہے۔
الشَّطْرَةُ۔ نَوْعٌ أَوْلَادُ فُلَانٍ شَطْرَةُ

فلاں کی اولادیں آدھے لڑکے ہیں اور
آدھی لڑکیاں۔
الشَّطْرَانُ۔ آدھا بھرا ہوا۔ مؤنث۔
شَطْرِي۔
الشَّاطِرُ۔ فَا۔ بوٹیا۔ چالاک۔ قریبی۔
مکار۔ شریر۔ ج۔ شَخَارٌ
الشَّطْرُ۔ مِنَ الْغَايِجِ أَوِ النَّوْقِ۔ ایک
حقن دوسرے سے لمبا یا ایک حقن
خشک رکھنے والی بھیڑ یا اونٹنی۔ ثوبٌ
شَطْرٌ۔ وہ کپڑا جس کی ایک جانب
دوسری سے لمبی ہو۔ حَارٌ شَطْرٌ۔
وہ مکان جو دوسرے مکانوں سے
جدا ہو۔

الشَّطِيرُ۔ دور۔ اکیلا۔ مسافر۔ اجنبی۔ ج۔
شَطْرًا وَ شَطْرًا۔ نصف۔ کہتے ہیں
"هَذَا شَطْرٌ وَ شَطِيرٌ"۔ یہ اس کا
آدھا ہے۔ جیسے کہ۔ هَذَا النِّصْفُ
وَالنِّصْفُ۔

الشَّطْرُجُ۔ ایک مشہور کھیل ہے (فارسی سے
مربط ہے)۔ ج۔ شَطْرُ نَجَاتٍ۔
شَطْرَ (ن) شَطْرًا۔ فِي الْأَرْضِ۔ سفر کرنا
الشَّطْرُ۔ م۔ چالاک۔ دانائی۔ عقلمندی۔
الشَّطْرُ وَالشَّطْرَةُ۔ مخالفت۔ عناد،
دشمنی۔

الشَّطْرُوسُ۔ ہر طرف جانے والا۔ حکم کے
مخالفت چلنے والا۔
شَطْرَ (ن) شَطْرًا۔ الْجُلُوسُ۔ بیارمی وغیرہ
کی وجہ سے گھبراتا۔

شَطْفَ (ن) شَطْفًا۔ الْجُلُوسُ۔ چلے جانا
دور ہونا۔ عَنِ الشَّيْءِ۔ بٹنا۔ ایک
طرف ہونا۔ الثَّوْبُ وَغَيْرُهُ۔ کپڑا
وغیرہ دھونا۔ سَهْمٌ شَطِيفٌ۔
نشانہ کو خطر کرنے والا تیر۔ نَيْسَةٌ
شَطُوفٌ۔ اروہ دور و بے پایاں۔
الشَّطْفَةُ۔ مِنَ الشَّيْءِ۔ ج۔ شَطْفٌ۔





شَطْنَةُ (ن) شَطْنًا - مخالفت کرنا۔ دور کرنا۔
رسی سے باندھنا۔

شَطْن - فی الارض - ملک میں داخل ہونا۔
(شَطُونًا) الدائر - گھر کا دور ہونا۔
- الوجُل - حق وغیرہ سے دور ہونا۔
أَشْطَنَهُ - دور کرنا۔

شَيْطَن - شَيْطَانٌ وَشَيْطَانٌ شَيْطَانِي
کام کرنا۔

الشَّيْطَانُ - فاء - شریر غیث۔ حق سے مخوف۔
الشَّطْنُ - رسی - جہ - أَشْطَانٌ - بٹو
شَطُونٌ - گہرا کنواں - حَرْبٌ شَطُونٌ
بہت سخت جنگ۔

الشَّطِينُ - دور۔
الشَّيْطَانُ - جہ - شَيْطَانِي - بُدِی روح۔

ہر کرش نافران، خواہ انسان ہو یا جانور
شَيْطَانِي الْعَوْب - عرب کے نافران
وسرکش لوگ - سانپ - شَيْطَانُ
الْفَلَاح - پیاس - فَنَّا ط الشَّيْطَانِ

ترمرے - مراب - دیکھ شَيْطَانُهُ
شیطان اس پر سوار ہوا یعنی وہ غفناک
ہوا - شَيْطَانِي الراس - غصے کا
بوش۔

شَطِي (ن) شَطِيًا - یعنی شعی۔

شَطِي - تَشْطِيَةً - الشَّاة - بکری کی کھال
اتار کر اس کے گوشت کو جدا کرنا۔

الشَّطِي - الشَّعِي - شاخدار ہونا۔ متفرق ہونا
جدا جدا ہونا۔

شَطْلَةُ (ن) شَطْلًا - الامور کسی معاملہ
کا شاق ہونا۔ (ر) وَشَطْلًا وَأَشْطَلًا
القوم منتشر کر دینا۔ دھتکار دینا۔
شَطْلًا وَأَشْطَلًا - الجَوَالِق - بورے
کے کڑے میں لکڑی باندھنا۔

الشَّطْل - مہ - باقی ماندہ دن۔ جہ - أَشْطَاظًا
الشَّطَاظ - ٹیلے سرے کی لکڑی جو بورے
کے گوشوں میں لگائی جاتی ہے۔ جہ۔

أَشْطَلَةٌ۔

الشَّطِيظ - بندھا ہوا بورا۔ چری ہوئی لکڑی۔

جہ - أَشْطَاظًا - كَارُوا أَشْطَاظًا
أَوْشَطَاظًا - وہ ہر طرف بکھر گئے۔

شَطَفَت (ن) شَطْفًا - العیش - تنگ
گدماں ہونا۔ الوجُل - کسی کی زندگی

کا تنگ ہونا۔ سستی کی زندگی گزارنا۔
صفت (شَطْفَت) - العیش۔

شَطَفَت الْيَدُ - ہاتھ کا کھردرا
ہونا۔ السَّهْم - تیر کا کھال اور

گوشت کے درمیان گھسنا۔ وَشَطَفَتْ
(ن) شَطْفًا - الشَّجَر - درخت

کا خشک ہونا۔ مچھنا۔ صفت (شَطْفَت)
شَطَفَهُ (ن) شَطْفًا - كَذَابٌ - منع کرنا۔ روکنا۔

الشَّطْف - مہ - جہ - شَطَاظًا - (ر)
الشَّطَاظ (ن) تنگی۔ سستی۔

الشَّطَاظ - دُور - الشَّطْف - مہ
لاٹھی کی پھین۔

الشَّطْف - خشک روٹی۔ لکڑی کی کھونٹی۔
جہ - شَطْفَةٌ۔

الشَّطْف - بدخلق۔ سخت جنگ جو۔ عود
شَطِيظ - ٹوٹی ہوئی لکڑی۔ آرض

شَطْفَةٌ - سخت اور خشک زمین۔
الشَّطْل - بے ارادہ بولنے والا۔

شَطِي يَشْطِي شَطِيًا - پھٹنا۔ القوم
متفرق ہونا۔

شَطِي يَشْطِي شَطِيًا - السَّعَاء - پانی
بھر کر تن جانا۔ الميْت - میت

کے ماتھے پیروں کا اٹھنا۔
شَطِي تَشْطِيَةً - القوم - قوم کو پراگندہ

کرنا۔ متفرق کرنا۔ الفوس - گھٹنے
کی باریک ہڈی کو پھاڑنا۔

أَشْطِي - گھٹنے کی باریک ہڈی پر مارنا۔
تَشْطِي - پھٹنا۔ متفرق ہونا۔ العود - لکڑی

کے ٹکڑے اڑنا۔

الشَّطِي - مہ - گھٹنے یا کلائی کی ہڈی اور چھوٹی
ہڈی یا ان کے چھوٹے چھوٹے پٹے۔ قوم

کے پیروہ قوم میں اجنبی لوگ۔
الشَّطِيَّة - کان۔ پندلی کی ہڈی۔ لکڑی یا

ہڈی وغیرہ کا ٹکڑا۔ جہ - شَطَاظًا
وَشَطِيًا۔

شَع - (ن) شَعًا وَشَعَاعًا - الماء۔
پانی کا پھینا۔ (ر) شَعًا وَشَعِيْعًا،

تیزی کرنا۔ جلدی کرنا۔
شَع (ن) شَعًا وَشَعَاعًا - الماء۔ پانی

بکھیرنا۔ شَع الغَارَة عَلَيْهِم -
لوٹ ڈالنا۔

أَشَع - (ن) شَعًا - الماء وَنَحْوَهُ - پانی
وغیرہ بکھیرنا۔ الشَّعْس - سورج کا

اپنی کرنیں پھیلا نا۔ الزرع - کھیتی کا
خوشہ نکالنا۔ السُّبُل - بالی کا

دانوں سے پر ہونا۔
الشَّع - الدُّبُّ فِي الْعَلَم - بھیڑیے کا

بکریوں میں تباہی مچانا۔
الشَّع - لکڑی کا جالا۔ شَعُ الشَّمْس -

سورج کی کرن۔
الشَّعَاع - سورج کی کرن۔ جہ - أَشَعَّةٌ وَ

شَعَعٌ وَشَعَاعٌ۔
الشَّعَاع - مہ - خون وغیرہ کا بکھیرنا۔ ہلکا سایہ

من اللَّبَن - زیادہ پانی ملا ہوا دودھ۔
ہر بکھری ہوئی چیز۔ کہتے ہیں - زَهَبُوا

شَعَاعًا - وہ بکھر گئے۔ طَا قَلْبُهُ
شَعَاعًا - اس کا دل غموں سے پراگندہ

ہو گیا۔
شَعَاع - السُّبُل وَشَعَاعٌ وَشَعَاعٌ

وَشَعَّةٌ - خوشہ کا خار۔
الْمَشَعُّ وَالشَّعِيْع - جلدی۔ والشَّعُّ مِنْ

كُل شَيْءٍ - متفرق۔
شَعَب (ن) شَعْبًا - الشَّع - جمع کرنا۔

متفرق کرنا۔ درست کرنا۔ بگاڑنا۔ ضد

بھاڑنا۔ الشیء۔ ظاہر ہونا۔ القوم۔
متفرق ہونا۔ الرجل۔ مرنا۔
شَعْبَدْنُ الْمَيْتَةَ۔ موت کا اچانک
آنا لینا۔ فَلَانًا۔ مشغول کرنا۔
اللَّجَامُ الْفَرَسِ۔ لجام، حور سے
کو روکنا۔ اور پھیرنا۔ اشْعَبَ بِي
شَعْبَةً مِنَ الْمَالِ۔ مجھے اپنے مال
میں سے ایک حصہ دو۔ ساتھیوں کو
چھوڑ کر قوم کی طرف رخ کرنا۔ الْأَمِيرُ
رَسُولًا إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا۔ ایچی بنا کر
بھیجنا۔
شَعِبَ رَسٌ شَعْبًا۔ الرجلُ أَوْ الشَّوْصُ۔
آدمی کے دونوں شانوں اور بیل کے
دونوں سینگوں کے مابین فاصلہ ہونا۔
شَعِبَ وَاشْعَبَ۔ عَنده۔ ہمیشہ کے
لیے مہیا ہونا۔ اشْعَبَ الرجلُ۔ مرنا۔
شَاعَبَ وَشَاعَبَتْ۔ نَفْسُهُ۔ مرنا۔
شَاعَبَ الْحَيَوَةَ۔ ہلاک کرنا۔
صَاحِبَهُ۔ جہا ہونا۔ دور ہونا۔
تَشَعَّبُوا۔ متفرق ہونا۔ کھینا۔ تَشَعَّبَ
الزُّرْعُ۔ شاخدار ہونا۔ الشَّعْرُ۔
نہر کی کمی شاخیں نکلتا۔ عَنده۔ دور
ہونا۔ تَشَعَّبَتْهُ الْفِتْنَةُ۔ فتنہ و فساد
نے ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ یا
متفرق کر دیا۔ تَشَعَّبَتْ أَعْصَانُ
الشَّجَرَةِ۔ درخت کی شاخوں کا ادھر
ادھر پھیل جانا۔ الشیء۔ درست ہونا۔
اشْعَبَ۔ عَنده۔ دور ہونا۔ أَعْصَانُ
الشَّجَرَةِ۔ درخت کی جڑ سے شاخیں
پھوٹنا۔ الطَّرِيقُ أَوْ الْهَدْيُ۔ راستہ یا
نہر کا پھٹنا۔ اشْعَبَ بِأَيِّ الْقَوْلِ۔
بات میں بات نکلتا۔
الشَّعْبُ۔ مم۔ بڑا قبیلہ۔ لوگوں کی جماعت
مثل۔ دوری۔ دور۔ سر کے ٹکڑوں کے
جوڑ کی جگہ۔ دراز۔ شکاف۔ جرد

شُعُوبُ
الشُّعُوبِيَّةُ۔ ایک فرقہ ہے۔ جو عرب کو عجم پر
ترجیح نہیں دیتا۔ واحد (شُعُوبِيٌّ)
الشَّعْبُ۔ پاڑی راستہ۔ درہ۔ پانی کا
راستہ۔ بڑا قبیلہ۔ کوئہ کنارہ۔ جہ۔
شُعَابُ۔ شَعَلَتْ شُعَالِي جَدًا دَائِي
بال بچوں پر خرچ کرتے مجھ کو دوسروں
پر فضل و کرم کرنے سے باز رکھا۔
الشَّعْبُ۔ مم۔ دونوں شانوں یا دونوں
کندھوں یا سینگوں کے درمیان کا فاصلہ۔
الشَّعْبَةُ۔ فرقہ۔ گروہ۔ درخت کی شاخ۔
دونوں کندھوں یا سینگوں کے درمیان
کا فاصلہ۔ پانی بننے کی جگہ۔ بڑی وادی
جو کھیتی کو سیراب کرے، کسی چیز کا حصہ۔
پاڑی دراز۔ جہ۔ شَعْبٌ وَشُعَابُ
شُعْبُ الدَّهْرِ۔ حالاتِ زمانہ۔
شُعْبُ السَّعْدِ۔ سیخ کے دندانے
جن میں گوشت جھونٹنے کے لیے لگاتے
ہیں۔ شُعْبُ الْيَدِ الْكَلْبِ۔ شُعْبُ الْجَنِيمِ
ہاتھ پاؤں۔ شُعْبَةُ الرَّجُلِ۔ کچا وہ کے آگے
پچھے کا حصہ۔ هَذِهِ مَسْئَلَةٌ كَثِيرَةٌ
الشَّعْبُ۔ اس مسئلہ سے بہت سی
تصریحات نکلتی ہیں۔
شُعْبَانُ۔ قمری سال کا آٹھواں مہینہ۔ جہ۔
شُعْبَانَاتُ دُشَعَابِيْنُ۔
شُعُوبُ۔ موت (غیر منفرد ہے)،
الْأَشْعَبُ۔ کندھوں یا سینگوں کے درمیان
بہت فاصلہ رکھنے والا۔ ٹوٹے سینگ
والا۔ مَوْنُ شُعْبَاءُ۔ جہ۔ شُعْبُ۔
الشَّعَابُ۔ دراز کو جوڑنے والا۔ پیشہ کا نام
(الشَّعَابَةُ)
الشَّعْبِيُّبُ۔ پالان۔ پرانی مشک۔ توشہ دان
جہ۔ شُعْبُ۔
الشَّعَابَانُ۔ دونوں کندھے
المَشْعَبُ۔ راستہ۔ هَذَا الشَّعْبُ الْحَقِيقُ۔

یہ حق کا راستہ ہے۔ جہ۔ مَشَاعِبُ۔
المَشْعَبُ۔ سوراخ کرنے کا اوزار۔ بَرَمَا۔
المَشْعَبُ۔ درست کیا ہوا۔ شَعْبَتَانِ۔
شعبہ بازی کرنا۔
شَعِبَتْ رَسٌ شَعْبًا۔ الْأَمْرُ۔ پراگندہ ہونا
(شَعْبًا وَشَعْبَتَانِ)۔ الشَّعْرُ۔
بالوں کا غبار آلود اور بکھرے ہوئے ہونا
پراگندہ بالوں والا (أَشْعَبَتْ مَوْنُتُ
شَعْبَاءُ۔ جہ۔ شَعْبُ۔
شَعْبَتْ۔ الشیء۔ بکھیرنا۔ پراگندہ کرنا۔
عُ يَخْبِرُ۔ بھلائی پہنچانا۔ مِنْ
فَلَانٍ۔ چشم پوشی کرنا۔ مِنْهُ
شَيْئًا۔ بے لینا۔ نکال لینا۔ عَنده
مدافعت کرنا۔ حفاظت کرنا۔ مِنْ
الطَّعَامِ۔ تھوڑا سا کھانا۔ الشَّاعِرُ۔
شعر میں تشعیت جاری کرنا۔ تشعیتِ علم
عروض کی اصطلاح میں فاعلان تن کے
وتد میں سے ایک متحرک حذف کر دینے
کو کہتے ہیں۔
تَشَعَّبَتْ۔ بکھیرنا۔ پراگندہ ہونا۔ مِنْ
الطَّعَامِ۔ تھوڑا کھانا کھانا۔ الشَّعْرُ۔
بالوں کا غبار آلود اور بکھرا ہوا ہونا۔
الشَّعْرُ۔ شعر میں تشعیت جاری ہونا۔
الشَّعْبُ۔ کام کی پراگندگی۔
الشَّعْبُ۔ مم۔ لَمْ يَلِكْ شَعْبُهُ۔ اللہ
تعالیٰ نے ان کے امر کو جمع کر دیا۔
الشَّعْبُ وَالشَّعْبَانُ۔ بکھرے ہوئے غبار
آلود بالوں والا۔
شَعْرَانِ شَعْرًا وَشَعْرًا۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے
کے اندر بال لگانا یا بھرنے۔ الرجلُ۔
شعر کہنا۔ لَفْلَانِ۔ کسی کے لیے
شعر کہنا۔
شَعْرَانِ وَشَعْرَانِ شَعْرًا وَشَعْرًا
شَعْرِي وَشَعْرِي وَشَعْرِي وَشَعْرَةً
وَشَعْرًا وَشَعْرَةً وَشَعْرًا وَ

مَشْعُورَةٌ وَمَشْعُورٌ اِيْلَهُ - جاننا محسوس کرنا - کہہ سمجھنا۔

شَعْرٌ دس - شَعْرًا - لمبے اور زیادہ بالوں والا ہونا۔

شَعْرٌ الْجَنَيْنُ - ماں کے پیٹ میں بچہ کے بال نکلنا - الثوب وَنَحْوُهُ - کپڑے وغیرہ میں بال بھرنا۔

أَشْعَرُ الْجَنَيْنُ - ماں کے پیٹ میں بچہ کا بال دار ہونا - الثوب کپڑے وغیرہ میں بال بھرنا۔ هُوَ الْأَمْرُ وَ

بِالْأَمْرِ - خبر دینا۔ آگاہ کرنا۔ هُوَ الشَّعَارُ - شعار پہنانا۔ بدن سے لگنے والا کپڑا پہنانا۔ کہتے ہیں أَشْعَرَ

الْمَهْمُ قَلْبِي - فکر نے میرے دل کو کپڑا لیا۔ أَشْعَرَهُ لِكُنْ - چپکانا۔ القوم - قوم کا اپنے لیے کوئی خاص

علامت رکھنا۔ ایک دوسرے کو خاص علامت سے پکارنا۔ أَمْرٌ فَلَانٌ - مشہور کرنا۔ الْمَوْجِلُ کسی کو بُرے نام سے مشہور کرنا۔ هُوَ شَرًّا - شر سے ڈھانپ لینا۔

شَاعَرَ - شعروں میں مقابلہ کرنا۔ أَشْعَرَ - الْمَلِكُ - بادشاہ کا قتل ہونا۔ تَشَعَّرَ الْجَنَيْنُ - شکم مادر میں بچہ کے بال نکل آنا۔

تَشَاعَرَ - بناوٹی شاعر بننا۔ اسْتَشْعَرَ - الْجَنَيْنُ - ماں کے پیٹ میں بچہ کے بال نکلنا۔ الشَّعَارُ

شعار پہنانا۔ القوم - قوم کا لڑائی میں ایک دوسرے کو خاص علامت سے

پکارنا۔ بِالثَّوبِ کپڑے کو اور کپڑوں کے نیچے پہننا۔ اسْتَشْعَرَ خَوْفَ اللَّهِ - اللہ کے خوف کو اپنے دل کے لیے شعار بنالو۔

الشَّعْرُ وَالشَّعْرُ - بال - جہ - أَشْعَارُ و

شَعَارٌ وَشُعُورٌ - واحد (شَعْرَةٌ)

جہ - شَعْرَاتٌ - شَعْرُ الْفُولِ - ایک قسم کی نبات۔

الشَّعْرُ - مص - منظوم کلام - موزوں کلام - جہ - أَشْعَارٌ - كَيْسَتْ شِعْرِي فَلَانًا

أَوْ عَنْ فَلَانٍ أَوْ بِفُلَانٍ مَا صَنَع - کاش میں جانتا ہوتا کہ فلاں نے کیا کیا۔

الشَّعْرَةُ - بادل کا ایک ٹکڑا۔ (وَالشَّعْرَاءُ) زیر ناف بال لگنے کی جگہ۔

الشَّعْرُ وَالشَّعْرَانِي - لمبے اور بہت بال رکھنے والا۔

الشَّعَارُ - درختوں والی جگہ۔ گھنے اور گنجان درخت جہاں لوگ سردی کے موسم میں

گرمی حاصل کریں اور گرمی کے موسم میں سایہ لیں۔ درخت۔ وہ لباس جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ شَعَارٌ

الحجیر - حج کے احکام و رسوم۔ واحد (شَعَارَةٌ)

الشَّعَارُ - خاص لفظ جو فوج میں مقرر ہوتا ہے اور جس سے اپنے آدمیوں کو پہچانا جاتا ہے اور لڑائی کے وقت اس لفظ

سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اس کو سِرِّ اللَّيْلِ - بھی کہتے ہیں۔

لڑائی یا سفر میں مقررہ علامت۔ جسم سے لگنے والا کپڑا۔ گھوڑے کی جھول۔

کڑک۔ گنجان درخت جہ - أَشْجَرَةٌ وَشُعُورٌ - شَعَارُ الْحَجَرِ - حج کے مناسب رسوم۔ شَعَارُ الْمَمْلُوكَةِ

حکومت کی علامات۔ واحد (شَعَارَةٌ)

الشَّعِيرُ - جہ - واحد (شَعِيرَةٌ) جہ - شَعِيرَاتٌ - نیز آنکھ کی پلک میں

جو نما نکلنے والی گرائی کو بھی شَعِيرَةٌ کہتے ہیں۔

الشَّعِيرَةُ - علامت - جہ - شَعَارٌ الشَّعِيرِي - شمر کی طرف منسوب۔ جہ

فروش۔

الْأَشْعَرُ - بہت اور لمبے بال رکھنے والا۔ مُؤَنَثٌ - شَعْرَاءُ - جہ - شَعْرٌ - فَلَانٌ أَشْعَرُ

الْوَقْبَةُ - فلاں مضبوط گردن والا ہے گویا کہ شیر ہے۔ الْأَشْعَرُ - جہ -

أَشَاعِرُ - جانور کے گھر کے آس پاس کی کھال - ناخن کے نیچے نکلنے والا گوشت

"هَذَا الْبَيْتُ أَشْعَرُ مِنْ هَذَا" یہ شعر اس سے اچھا ہے۔

الشَّعْرَاءُ - مؤنث الْأَشْعَرُ - پوستیں - جانوروں پر بیٹھنے والی مکھی۔ لوگوں کی

کثرت اور بھڑ ایک قسم کا آڑو۔

ارضٌ شَعْرَاءُ - بہت درختوں والی زمین۔ ذَاهِبَةٌ شَعْرَاءُ - سخت مصیبت - جہ - شَعْرٌ -

الشَّاعِرُ - فاعل - شعر کہنے والا - جہ - شَعْرَاءُ مؤنث - شَاعِرَةٌ - جہ - شَعْوَاعِرُ و

شَاعِرَاتٌ - شَعْرٌ شَاعِرٌ - عمدہ شعر۔

الشَّعْرِي - سخت گرمی میں طلوع کرنے والا ایک ستارہ۔

الشَّعْرُورُ - بہت کمزور شاعر چھوٹی لکڑی۔ واحد (شَعْرُورَةٌ) جہ - شَعَارِيدُ -

الْمَشْعَرُ - علامت سایہ دار درخت۔ ریح کے رسوم ادا کرنے کی جگہ - جہ - مَشَاعِرُ

الْمَشَاعِرُ - حواس۔

شَعْنَشَعٌ - الشَّكَاب - شراب میں پانی ملانا۔ - الشَّيْءُ - بعض کو بعض کے ساتھ ملانا۔

شَعْنَشَعَتِ الشَّمْسُ - سورج کی روشنی کا پھیل جانا۔ الصَّوْنُ - روشنی کا پھیلنا۔ شَعْنَشَعٌ عَلَيْهِمُ الْحَيْلُ -

سواروں سے حملہ آور ہونا۔ تَشَعْنَشَعٌ - الشَّهْرُ - مہینہ کا اکثر حصہ

گذر جانا۔ الشَّعْنَشَعُ وَالشَّعْنَشَعُ وَالشَّعْنَشَاعُ -



وَالشَّعْشَعَانُ وَالشَّعْشَعَانِيُّ لَبَا
تولہورت۔ دانار۔ زیرک۔ سبک۔ ر۔
وَالْمَشْعَشَعُ مِنَ الْخَيْلِ بِلَا سَابِہ۔
شَعْفَةُ رَفٍّ شَعْفًا۔ الْحَبُّ۔ مَحَبَّتِ کَا
دل پر غلبہ پانا۔ هُ بِالْقَلْبَانِ۔ دُطْرَان
لَنَا۔ الشَّيْءُ الشَّيْءُ۔ ایک چیز کا دوسری
پر چڑھنا۔
شَعِيفٌ (رَس) شَعْفًا۔ يَفْلَانٍ وَيُحِبُّ
فُلَانٍ۔ فریفتہ ہونا۔ النَّاقَةُ۔ اَوْثَنِي
کو شعل کی شکایت ہونا۔ صفت۔
(شَعْفَاءُ)
شَعِيفٌ۔ يَفْلَانٍ کسی کی محبت کا دل میں
بیٹھ جانا۔ محبت میں بے خود ہونا۔
الشَّعْفُ۔ مَص۔ کوہن کی چوٹی۔ اوٹنی کی
ایک بیماری کا نام جس کے اثر سے اس
کی آنکھوں کے بال جھڑ جاتے ہیں۔
الشَّعْفَةُ۔ اِسْمُ مَرَّةٍ بَارِشٍ كَقَطْرَةٍ يَكْبِي بَارِشٍ
ہوز میں کی سطح کو تر کر دے۔
الشَّعْفَةُ۔ پھاڑ کی چوٹی۔ بالوں کی زلف۔
لُٹ۔ چوٹی۔ بلندی۔ جہ۔ شَعْفٌ وَ
شُعُوفٌ وَشِعَافٌ وَشَعْفَاتٌ۔
أَشْعَافٌ۔ دیوانگی۔ محبت کی شیفنگی۔ فریفتگی۔
الشَّعَافُ۔ دیوانگی۔ محبت کی فریفتگی۔
الْمَشْعُوفُ۔ محبت میں شیفنتہ۔ محبت کا دیوانہ۔
مَشْعَلٌ۔ شَعْلًا۔ النَّارُ۔ آگ بھڑکانا۔
الْأَمْرُ۔ معاملہ کو غور سے دیکھنا۔
شَعِلَ (رَس) شَعْلًا وَاشْتَعَلَ الْفَرْسُ۔
گھوڑے کا دم اور پیشانی پر سفید داغ
رکھنا۔ صفت (رَسَا عِلٌ وَشَعِيلٌ وَ
أَشْعَلٌ)۔
شَعَلَ النَّارَ۔ آگ بھڑکانا۔ أَشْعَلَ النَّارَ۔
آگ بھڑکانا۔ هُ غَضَبٌ نَاكِرْنَا۔
الْجَمْعُ۔ جمعیت کو منتشر کرنا۔
الْحَيْلُ فِي الْغَارَةِ۔ سواروں کو چاروں
طرف پھیلانا۔ (السَّقَى)۔ خوب پانی

پلانا۔ أَشْعَلَتِ الْقَرْيَةُ مَشْكُ كَ
پانی کا ادھر ادھر سے ٹپکنا۔ الْطَغْنَةُ
جگہ جگہ سے خون رشنا۔ الْعَيْنُ
زیادہ آنسوؤں والی ہونا۔
أَشْعَلَ۔ أَشْعَلًا لَّا وَشَعَالٌ۔
أَشْعِيلًا لَّا۔ رَأْسُ الدَّجَلِ۔ سر کے
بالوں کا کھڑا ہونا۔ الْفَرْسُ۔ دم
یا پیشانی پر سفید داغ ہونا۔
تَشَعَّلَتْ وَاشْتَعَلَتْ۔ النَّارُ۔ آگ کا
بھڑکنا۔ أَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا۔ سر
کے بالوں میں بڑھاپے کی سفیدی کا پھیل
جانا۔ أَشْتَعَلَ فُلَانٌ۔ کسی کا غصہ
سے بھڑک جانا۔
الشَّعْلُ۔ مَص۔ غَلَامٌ شَعْلٌ۔ جوشیلا
نوجوان۔
الشَّعْلُ۔ مَص۔ گھوڑے کی دم اور پیشانی
کا سفید داغ۔
الشَّعْلَةُ۔ آگ کا شعلہ۔ آگ کی بھڑک جلتی
لکڑی جس سے آگ بھڑکانی جائے۔ جہ۔
شَعْلٌ۔
الشَّعِيلُ۔ ہلڑی وغیرہ کے نیچے ستاروں
کے مانند چمکنے والی چیز۔
الشَّعِيلَةُ۔ بھڑکتی ہوئی آگ جلتی ہوئی بتی۔
جہ۔ شَعْلٌ۔
الْأَشْعَلُ۔ مِنَ النَّاسِ۔ وہ جس کی
آنکھوں میں پیدائشی سرخی ہو۔
الْمَشْعَلُ وَالْمَشْعَالُ۔ مَانِي۔ چھلنی۔ جہ۔
مَشَاعِلٌ وَمَشَاعِيلٌ۔
الْمَشْعَلُ وَالْمَشْعَلَةُ۔ لَبِيبٌ۔ قنیل۔ جہ۔
مَشَاعِلُ۔ الْمَشْعَلَةُ۔ چولہا۔
الشُّعْلُولُ۔ آگ کا شعلہ۔ لوگوں کا گروہ۔
جہ۔ شَعَالِيلُ۔ دَهَبُوا شَعَالِيلًا۔
وہ علحدہ علیحدہ چلے گئے۔
شَعَمَ رَفٍّ شَعْبًا۔ الرَّجُلُ۔ لوگوں
کے درمیان صلح کرانا۔

أَشْعَنَ۔ عَدُوٌّ۔ دشمن کو پیشانی سے
پکڑ لینا۔
أَشْعَانٌ وَاشْعَقَ۔ شَعْرَةٌ۔ بالوں کا
پراگندہ ہونا۔
الشَّعْنُ۔ سوکنے کے بعد جھڑے ہوئے
پتے یا گھاس۔ شَعْرٌ مَشْعُونٌ۔
پراگندہ بال۔ رَجُلٌ مَشْعَانٌ۔
الوایس۔ پراگندہ بالوں والا۔
شَعْنَبٌ۔ الْكَبْشُ۔ کان کی طرف مڑے
ہوئے سینگوں والا ہونا۔ صفت۔
(مَشْعَنَبٌ وَمَشْعَنِبٌ)
شَعَالِي شَعْوًا شَعْوًا۔ الشَّعْرُ۔ بالوں کا
کھڑا ہونا۔
شَعِيتَ كَشَعِي شَعًا۔ الْغَارَةُ۔ لوٹ
اور غارت کا پھیلنا۔ صفت (شَعْوَاءُ)
أَشْعَى۔ يَهْ۔ اِهْتِمَامٌ كَرْنَا۔ الْقَوْمُ الْغَارَةُ
برسمت لوٹ ڈالنا۔ غَارَتْ شَعْوَاءُ
دور تک پھیلی ہوئی غارت۔ شَجَرَةٌ
شَعْوَاءُ۔ پھیلی ہوئی شاخوں والا
درخت۔
الشَّارِعِي۔ فَا۔ دور۔ متفرق۔ مشترک حصہ۔
مُرْتٌ۔ شَاعِيَةٌ۔ جہ۔ شَوَاعِجُ۔
کتے ہیں بَجَاعَتِ الْخَيْلِ شَوَاعِجُ
یعنی متفرق آئے۔
الشَّعَى۔ پراگندہ بالوں کا گچھا۔ واحد
(شَعْوَةٌ)۔
شَعُوذٌ شَعُوذَةٌ۔ مَدَارِي كَاتَا شَاكِرْنَا۔
شعبہ بازی کرنا۔ صفت (مَشْعُوذٌ وَ
مَشْعُوذٌ)۔
شَعَبَ رَفٍّ وَشَعَبَ رَسٍّ شَعْبًا وَ
شَعْبًا وَشَعَبٌ۔ الْقَوْمُ وَبِهْوَدِ
عَلَيْهِمْ۔ فتنہ و فساد برپا کرنا۔ تباہی
ڈالنا۔ صفت (شَعْبٌ وَشَعَبٌ وَ
شَعَابٌ وَمَشْعَبٌ وَمَشَاعِبٌ وَ
ذُو مَشَاعِبٍ)۔



شَغَبَ دَفْ شَغْبًا - عَنِ الطَّرِيقِ - راستہ سے ہٹنا - پھر جانا۔
 شَاغِبَةً - جھگڑا کرنا۔
 كَشَاغَبَ - الوجُلُ - نافرمانی کرنا۔
 الشَّغْبُ والشَّغْبُ - مَم - شور و غوغا۔
 الشَّغْبُ - شراکیز - جھگڑالو۔
 شَغَبَتِ الرِّيحُ - ہوا کا بیچ کھا کر چلنا۔
 شَغَبَتْ دَنَ شُغُورًا - الارضُ - ملک کا بغیر محافظہ کے ہونا۔ صفت ر شَاغِرَةٌ۔
 الوجُلُ - دور ہونا۔ السَّعْدُ - بھاؤ کا گھٹنا۔ الناسُ - لوگوں کا متفرق ہونا۔
 شَغَرَهُ دَنَ شُغْرًا وشُغْرًا - عَنِ بَلَدِهِ - شہر بدر کرنا۔ جلا وطن کرنا۔
 شَغَرَدَفْ شُغْرًا - الكَلْبُ - کتے کا ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا۔
 النَّاظِلَةُ - اونٹنی کا ایک ٹانگ اٹھا کر بچہ کو مارنا۔
 شَاغِرَةٌ مُشَاغِرَةٌ وشُغْرًا - اپنی بہن یا بیٹی کو کسی کے نکاح میں اس شرط پر دینا کہ وہ بھی اپنی بہن یا بیٹی کو بغیر مہر کے اس کے نکاح میں دے دے۔
 الرَّجُلَانِ عَلَيْهِمَا - حملہ کرنا۔ غلبہ کرنا۔
 اشْغَرَ - المنْهَلُ - چشمہ کا راستہ سے ایک طرف ہونا۔ دور ہونا۔ الرُّقْفَةُ - ساتھیوں کا راستہ سے جدا ہونا۔
 الحِسَابُ عَلَيْهِ - حساب کا انتشار اور پھیلاؤ کے سبب قابو میں نہ آنا۔
 اشْغَرَ - الحِسَابُ عَلَيْهِ - حساب کا خلط ملط اور بیچیدہ ہونے کی وجہ سے قابو میں نہ آنا۔ ضبط میں نہ آسکنا۔
 الْأَمْرُ - بڑا اور وسیع ہونا۔ خلط ملط ہونا۔
 عَلَيْهِ - دست درازی کرنا۔ خُز کرنا۔
 الْحَبُّ بَيْنَ الْقَوْمَيْنِ - دونوں قوموں کے درمیان لڑائی کا وسیع پیمانہ پر چھڑنا اور سخت و سنگین ہونا۔
 فِي

الْعَلَاةُ - بیابان میں دور تک جانا۔
 تَشَغَّرَ - البَحِيرُ - اونٹ کا تیز دوڑنا۔
 فِي أَمْرِ قَبِيحٍ - دیر تک رہنا۔
 انْتَهَا كُوَيْبُنَا - کتے میں۔ تَقَوُّوا شَغَرَ بَعْرًا وشُغْرًا بَعْرًا - وہ ہر طرف بکھر گئے۔ اِنَا عَشَغَسْتُ - خالی برتن۔
 الشَّغَارُ - مَم - دھتکار۔ جلا وطنی۔ پکڑنا۔
 شَغَارًا وَكَبَارًا شِغَارًا - بہت پانی والا کنواں یا کنویں۔
 الشَّغَارَةُ - جَہَنَّمَ - الشَّغِيرُ - بدخلق۔
 الْمُشَغَرُ - جھوٹی برہمی جس سے وحشی جانوروں کو جھگایا جاتا ہے۔
 الشَّغَرِيَّةُ - پہلوان کا اپنے مقابل کی ٹانگ میں ٹانگ ڈال کر گرانا۔ پچھاڑنا۔ ٹنگڑی مارنا۔
 شَغَرَدَفْ شُغْرًا - عَلَيْهِمَا - زیادتی کرنا۔ دست درازی کرنا۔ بَيْتُهُمْ بھڑکانا۔ فساد ڈالنا۔ الشَّغِيرَةُ - سوا۔
 شَغَبَتْ كُیْ كُوَيْبُنَا - پچھاڑنا۔
 تَشَغَبَتِ الرِّيحُ - ہوا کا بیچ کھا کر چلنا۔
 شَغَشَغَ - الشَّيْءُ - اندر کرنا۔ باہر لانا۔
 شَغَشَغَ الطَّاعِنُ - نيزہ باز کا زخم خوردہ کے جسم میں نيزہ کو پھیرنا۔ بلانا۔
 الْمَلْجُومُ - سوار کا لگام کو پھینکا کرنا اور جانور کو ادب دینا۔
 فِي الْأَمْرِ - جلدی کرنا۔ فی الشَّرْبِ - کم کرنا۔
 فِي الْإِنَاءِ عَمَاءً أَوْ غَيْرَهُ - برتن میں پانی وغیرہ بغیر بھرنے کے ڈالنا۔ اِسْتَوَ كُنُوسٍ کو گدلا کرنا۔
 شَغَفَهُ دَفْ شَغْفًا - دل کی جھلی کو صدمہ پہنچانا۔ فُحَا دَفْ - دل پر چھا جانا۔ غالب آنا۔ اَلْيَكْبِيْسُ - خشک گھاس کا سبز گھاس والا ہونا۔
 شَغَفَتْ دَسْ شَغْفًا وشَغَفَتْ - پہ۔ کسی کی محبت میں فریفتہ ہونا۔ شَغَفَتْ

حُبِّهِ - محبت کا دل کی جھلی تک پہنچنا۔
 تَشَغَفَتْ - الناسُ - دوسرے ڈال کر پرانگندہ کرنا۔
 الشَّغْفُ - مَم - دل کا غلاف۔ دل کا پردہ۔
 الشَّغْفُ - مَم - انتہائی محبت۔
 الشَّغْفُ - دل کا پردہ۔ سویداء قلب۔ ج شَغْفٌ وَأَشْغَفَةٌ۔
 الشَّغْفُ - دائیں طرف کی پسلیوں کے نیچے کا درہ۔
 شَغَلَهُ دَفْ شَغْلًا وشُغْلًا وَأَشْغَلَهُ - رِيكَذَا - مشغول کرنا۔ کام میں لگانا۔
 عَنْهُ - غافل کرنا۔ شُغْلٌ عَنْهُ - رِيكَذَا - مشغول رہنا۔ کسی کام میں لگا رہنا۔
 شَغَلَهُ - بہت کام دینا۔ بہت مشغول رکھنا۔
 تَشَغَّلَ وَتَشَاغَلَ وَأَشْتَغَلَ - رِيكَذَا - مشغول ہونا۔ اِسْتَشْغَلَ قَلْبُهُ - دل کا فکر مند ہونا۔ پریشان ہونا۔ اِسْتَشْغَلَ فِيهِ السُّمُّ - زہر کا اثر کر جانا۔
 الدَّوَاءُ فِيهِ - دوا کا فائدہ مند ہونا۔
 كَشَاغَلَ عَنْهُ - غافل ہونا۔
 الشُّغْلُ وَالشُّغْلُ وَالشُّغْلُ - مشغولیت مصروفیت۔ کام۔ ج۔ اَشْغَالَ و شُغُولُ - الشُّغْلُ - بھراؤ۔
 الشَّغْلَةُ - اسمِ مرۃ - کھلیان۔ غلہ کا ڈھیر۔ ج۔ شُغْلٌ۔
 الشُّغْلُ - مشغول کام والا۔
 الْأَشْغُولَةُ وَالْمَشْغُولَةُ - کام۔ الْمَشْغُولُ - مفعول بھرا ہوا۔ دَارُ مَشْغُولَةٍ - آباد گھر۔ جَارِيَةٌ مَشْغُولَةٌ - شوہر والی لڑکی۔ مَالٌ مَشْغُولٌ - تجارت میں لگایا ہوا مال۔
 الشَّغْمُ - حریص۔ الشَّغْمُومُ وَالشَّغْمِيمُ - لمبا۔ خوبصورت۔

الشُّعْبَةُ: ترشاخ - جر. شُعْنٌ -
 الشُّعْبُوبُ وَالشُّعْبُوبُ: نازک وتر شاخ -
 شَعْنٌ تَشْعُو شُعْوًا وَشَعِيَتْ -
 تَشَعَّى شَعًا. الیسٹ - دانت کا دوسرے دانتوں سے بڑھنا - دانت کا ناہموار ہونا - دانت کی صفت - (شاعیۃ) جر. شَوَاعٌ - رکھنے والا - (شاعی) موزن - شَعْوًا وَشَعْبَاءٌ - جر. شَعْوٌ - أَشَعَّى إِشْعَاءً الْقَدَمُ يَدٌ: مخالفت کرنا - فُلَانٌ رَابِلٌ: پریشان کرنا - پراگندہ کرنا - الشُّعْوَاءُ - عقاب - شَفَّ رَضٍ شَفُوقًا وَشَفِيفًا وَشَفَقًا: الشیءُ چیز کا اس قدر پتلی اور شفاف ہونا کہ دوسری طرف کی چیز دکھائی دے صفت (شَفِيفٌ وَشَفَاتٌ) - عِنْدُ الثَّوْبِ: کپڑے کا چھوٹا ہونا - (ر - شَفُوقًا، الْجِسْمُ جِسْمٌ كَالْأَعْرَى سے پتلا ہونا - شَفَقًا، الشیءُ زیادہ ہونا - کم ہونا - گھٹنا - هَذَا دِرْهَمٌ يَشْفَتْ قَلِيلًا: یہ درہم تھوڑا سا کم ہے - حرکت کرنا - لَهُ الْأَمْرُ دَائِمٌ رَهْنًا: ہمیشہ رہنا قائم رہنا - شَفِيفًا، فُلَانٌ: سرودی کی وجہ سے دانتوں اور مسوڑھوں میں درد ہونا - شَفَّهَ (دَن) شَفًا وَشَفُوقًا وَشَفَّهَ: الْمَرَضُ أَوِ السَّهْمُ: بیماری یا غم کا کسی کو دلا کرنا - کمزور کرنا - شَفَّ الْمَاءُ سب پانی پی جانا - أَشَفَّ عَلَى فُلَانٍ: کسی کو کسی پر فضیلت دینا - أَشَفَّ الْقَمَرُ مِنْهُ: کا بدبودار ہونا - أَشَفَّ عَلَى فُلَانٍ:

کسی پر برتری اور فوقیت لے جانا - الدَّرْهَمُ درہم کو زیادہ کرنا یا کم کرنا - اِسْتَشَفَّ وَتَشَفَّ: مَا فِي الْإِنَاءِ: برتن کی تمام چیز پی جانا - اِسْتَشَفَّ - لَهُ الْيَسْرُ: پردے کے پار کی چیز نظر آ جانا - الثَّوْبُ: کپڑے کا عیب دیکھنے کے لیے اس کو روشنی میں پھیلانا - الشیءُ: غور سے دیکھنا - اَلْكِتَابُ: کتاب میں غور و توجہ کرنا - اَلْبَارِكُ بِحِزْرِ دِيْكُنَا: مَا فِي الْإِنَاءِ برتن کی سب چیز پی جانا - اَلْيَدُ پوری پوری رغبت کرنا - فِي تِجَارَتِهِ: تجارت میں فائدہ حاصل کرنا - الشَّفُّ وَالشَّيْفُ: پتلا کپڑا یا باریک پردہ ہوا - زیادتی - نَقْصَانُ: ایک قسم کی بدبودار پھنسی - جر. شَفُوفٌ - شَفُوتٌ: تھوڑی اور کم چیز کو بھی کہتے ہیں - الشَّيْفُوتُ: مہم - سورج کی گرمی کی تیزی - تَهْنِئَةُ تِيزِي: سرود ہوا - ج - شَفَاتٌ - ثَوْبٌ شَفِيفٌ: الشَّفَفُ - مص - کم - تھوڑا - ہلکا پن تنگ حالی - الشَّقَاتُ: بارش والی ٹھنڈی ہوا - الشَّفَاكَةُ: برتن میں بچا ہوا پانی - شَفَاكَةُ النَّهَارِ: دن کا بقیہ حصہ - فُلَانٌ أَشَفَّ مِنْ فُلَانٍ: فلاں فلاں سے تھوڑا سا بڑا ہے - الْمَشْفُوفُ: بدبودار پھنسیوں والا - شَفَّرُوا اِسْتَشَفَّرُوا الْقَوْمَ: متفرق ہونا - اِسْتَقْرَ الْعُودُ: لکڑی کا ٹوٹنا - اَلْيَسْرُ جہ: چراغ کا چوڑی بتی والا ہونا - شَفَّرَ دَسَ شَفَارَةً: گھٹنا - کم ہونا -

شَفَّرَ الْمَالُ: مال کا کم ہونا - الشَّمْسُ سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا - عَلَى الْأَمْرِ: کسی امر کی طرف متوجہ ہونا - الشیءُ: جڑ سے الھٹنا - الشَّفَرُ: جر. اَشْدَارٌ وَ (الشَّهِيْرُ) پلک کی جڑ - ہر چیز کا کنارہ - مِنَ الْوَادِي: وادی کا اوپری کنارہ - کہتے ہیں: مَا فِي الدَّارِ شَفَرٌ وَشَفَرٌ وَ شَفْرَةٌ: گھر میں کوئی نیس - الشَّفْرَةُ: بڑی اور چوڑی چھری - تلوار کی دھار - نیزے کے پھل کا پلو - مہجی کی لہنی - جر. شَفَرٌ وَشَفَارٌ وَ شَفَرَاتٌ - عَيْشٌ مُشْفَرٌ: تنگ زندگی - اَلْمُشْفَرُ: شدت - روک - زمین کا ریت کا ایک قطعہ ہونٹ - اونٹ کا ہونٹ - جر. مَشْفَرٌ - شَفْرَةٌ (رَضٍ) شَفْرًا - لات مارنا - شَفَشَفَ: الرَّجُلُ: کانپنا - بدخلق ہونا - صفت (مُشْفِشٌ وَمُشْفَشَةٌ) يَدٌ: مل جانا - الدَّوَاءُ عَلَى الْجَرْحِ دوا کو زخم پر چھڑکنا - بَرَكْنَا: السَّهْمُ فُلَانًا: غم کا کسی کو لاغر کرنا - دہلا کرنا - اَلصَّقِيْعُ النَّبَاتُ: پودے کو پالا مارنا - الْحَرُّ أَوِ الْبَرْدُ: الشیءُ خشک کرنا - عَلِيْهِ: ڈرنا - تَشَفَّشَفَ: النَّبَاتُ: سوکھنے لگنا - الشَّفَشَاتُ: اولوں والی بارش - سرد ہوا - ثَوْبٌ شَفَشَاتٌ: چھنا کپڑا - چھدری بناوٹ کا کپڑا - شَفَّعَ (دَن) شَفْعًا: الشیءُ: جفت کرنا - دوبر کرنا - جَارَةٌ: بڑوسی کو حق شفع دینا - النَّاقَةُ: اونٹنی کا بچہ رکھتے ہوئے حاملہ ہونا - کہتے ہیں: شَفَّعَ لِي الْأَشْخَاصُ: کمزوری نظر کی وجہ سے

ایک چیز کا دو دکھائی دینا۔ ایسی آنکھ
 (شَافِعَةً) کہلاتی ہے۔
 شَفَعَ (دفع) شَفَاعَةً۔ فُلَانٌ أَدْفَعَهُ
 إِلَى زَيْدٍ۔ سفارش کرنا۔ شَفَعَ
 عَلَيْهِ بِأَلْعَدَةِ آدَمَ۔ کسی کے برخلاف
 مدد دینا۔ کہتے ہیں: فُلَانٌ يُعَادِيُنِي
 وَلَهُ شَفَاعَةٌ۔ فلاں شخص مجھ سے
 عداوت رکھتا ہے اور اس کا ایک مددگار
 ہے جو میری دشمنی پر اس کی مدد کرتا ہے۔
 فُلَانٌ فِي الْمَطْلَبِ۔ کسی کے
 مطلب میں کوشش کرنا۔
 شَفَعَ۔ الشَّيْءُ۔ جفت بنانا۔ شَفَعْنِي
 فِي فُلَانٍ۔ سفارش ماننا۔
 تَشَفَّعَ۔ لِي دِلِّي فُلَانٍ أَدْفَعِي
 فُلَانٍ۔ سفارش کرنے کے لیے کہنا۔
 اسْتَشَفَّعَ۔ زَيْدًا إِلَى عَمْرٍو۔ سفارش
 کرنے کی درخواست کرنا۔ فُلَانٌ عَلَى
 فُلَانٍ۔ کسی سے کسی پر مدد چاہنا۔
 الشَّفْعُ۔ مصر۔ جفت۔ وہ عدد جو دو پر
 برابر تقسیم ہو۔ اَشْفَعُ هُوَ آدَمُ
 وَتَرْتٌ کیا وہ جفت ہے یا طاق؟
 ج۔ اَشْفَاعٌ وَشَفَاعٌ۔
 الشَّفْعَةُ۔ زمین یا مکان کی ہمسائیگی کی
 وجہ سے متعلق خرید۔ حق شفعتہ دیوانگی
 آنکھ۔ مِنَ الضُّعْفِ۔ چاشت کی دو
 رکعتیں۔ ج۔ شَفْعٌ۔
 الشَّافِعُ۔ خا۔ نَاقَةُ شَافِعٍ۔ بچہ والی
 مائلہ اونٹنی۔ عَيْنُ شَافِعَةٍ۔ بوجہ
 کمزوری کے ایک کو دو دیکھنے والی آنکھ
 نَاقَةُ شَفْوَعٍ۔ ایک ہی مرتبہ
 دو بنے میں دو برتن بھرنے والی اونٹنی۔
 الشَّفِيعُ۔ سفارش۔ حق شفعتہ والا۔ ج۔
 شَفَاعَةُ الشَّفِيعِ مِنَ الْعَدُوِّ۔
 جفت۔
 الْأَشْفَعُ۔ لمبا۔

الْمَشْفَعُ۔ کامیاب سفارشی۔ مقبول الشفاعة۔
 الْمَشْفُوعُ۔ مجنون۔ امْرَأَةٌ مَشْفُوعَةٌ۔ وہ
 عورت جس کو نظر بد لگی ہو۔
 شَفِيقٌ (رس) شَفِيقًا۔ عَلَيْهِ۔ اصلاح و
 جلائی کی فکر میں ہونا۔ رحم کرنا۔ مہربان
 ہونا۔ صفت (شَفِيقٌ وَشَفِيقٌ وَ
 شَفِيقٌ) شَفِيقٌ مِنَ الْأَمْرِ۔ خوف
 کرنا۔ حرص کرنا۔ عَلَى الشَّيْءِ۔ بخل
 کرنا۔
 شَفَقَةٌ۔ رحم دلانا۔ شَفِيقُ الشَّيْءِ۔ کم
 کرنا۔ تَهَوُّؤُا کرنا۔ الثَّوْبُ۔ رولی بننا
 اَشْفَقُ۔ الشَّيْءُ۔ کم کرنا۔ عَلَيْهِ وَوَنَهُ
 وَرْنَا۔ لاپچ کرنا۔ عَلَى الصَّغِيرِ۔
 چھوٹے پر رحم کھانا۔ دِل دیکھنا۔ الْوَجَلُ
 شَفَقٌ كَادِقٌ پانا۔ الْوَيْحُ۔ ہوا
 کا تیر ہونا۔
 الشَّفَقُ۔ مصر۔ غروب آفتاب کے بعد
 آسمان کے افق پر سرخی مہربانی۔ رومی چیز
 دن خوف۔ کنارہ۔ کمزور کپڑا۔ ج۔
 اَشْفَاقٌ۔
 الشَّفَقَةُ۔ مہربانی۔ رحم۔ خوف کے ساتھ
 مہربانی۔ أَخَذَنِي مِنْهُ شَفَقَةٌ۔ مجھ
 کو اس پر رحم آیا۔
 شَفَنَ (دفع) وَشَفَنَ (رس) شَفُونًا۔
 الْوَجَلُ وَالْوَجَلُ۔ ترچھی نگاہ
 سے دیکھنا۔ صفت (شَفَنَ وَشَفُونٌ)
 الشَّفْنُ وَالشَّفْنُ عَقْلَنَد۔ دانا۔ الشَّفْنُ
 انتظار۔ میراث کا منتظر۔
 الشَّفُونُ۔ بہت غیرت مند۔ ج۔ شَفْنٌ۔
 الشَّفَتَرِيُّ وَالشَّفَتَرِيُّ۔ متفرق۔
 شَعَّةٌ (دفع) شَفْهًا۔ فُلَانًا۔ ہونٹ
 پر مارنا۔ سوال کر کے سب کچھ خرچ کرنا
 دینا۔ الْإِنَاءُ۔ سب پی کر برتن کو
 خالی کر دینا۔ كَادَتِ الْعِيَالُ
 تَشْفَعُ مَالِي۔ یعنی قریب ہے کہ

میرے عیال میرے مال کو ختم کر دیں۔
 عَيْنُ الْأَمْرِ۔ کام سے توجہ بٹا دینا۔
 غافل ہو جانا۔
 شَفَعٌ۔ زَيْدٌ۔ بہت سائیں رکھنا۔
 الشَّيْءُ۔ چیز کے طلب کاروں کا زیادہ ہونا
 الطَّعَامُ۔ کھانا کھانے کے لیے بہت
 آدمیوں کا ہونا۔ صفت (مَشْفُوعٌ)
 شَافِعَةٌ۔ شَفَاهَا وَمُشَافَهَةٌ۔ مندرجہ
 بات کرنا۔ الشَّيْءُ۔ قریب کرنا۔
 الشَّعَّةُ وَالشَّفَّةُ۔ مِنَ الْإِنْسَانِ۔ ہونٹ۔
 ج۔ شَفَاهُ وَشَفْمَاتٌ۔ نسبت
 کے لیے (شَفِيقٌ وَشَفِيقٌ وَشَفِيقٌ)
 تصغیر (شَفِيقَةٌ) کہتے ہیں۔
 "هُوَ خَفِيفُ الشَّفَةِ" سوال کرنے
 میں بہت اصرار کرنے والا۔ یا کم سوال
 کرنے والا۔ لَكِ فِي النَّاسِ شَفَّةٌ
 حَسَنَةٌ۔ لوگوں میں وہ اچھائی کے
 ساتھ مشہور ہے۔ شَفَّةُ الشَّيْءِ۔ باب
 کنارہ۔
 الشَّافِلُ۔ پیاسا۔ الشَّافِي وَالْأَشْفَلُ۔
 بڑے ہونٹوں والا۔ الْحُرُوفُ الشَّفِيفَةُ۔
 بھول سے نکلنے والے حروف۔ جیسے
 ب۔ ف۔ م۔
 الْمَشْفُوعُ مَفْعٌ۔ مَاءٌ مَشْفُوعٌ۔ بہت
 آدورفت والا پانی۔ فُلَانٌ مَشْفُوعٌ
 عَنَّا۔ فلاں ہم سے غافل ہے۔ اس کے
 پاس لوگوں کی بکثرت آدورفت ہے۔
 "هُوَ مَشْفُوعُ الْمُكَارِدِ" وہ بڑا مہمان
 نواز اور بخشش والا ہے۔
 شَفَائِلُهُ شَفَوًا۔ الْهَلَالُ۔ چاند نکلا
 الشَّخْصُ۔ ظاہر ہونا۔ الشَّخْصُ۔
 سورج ڈوبنے کے قریب ہونا۔
 الشَّفَا۔ غروب ہونے والے چاند کی کور۔
 ہر چیز کا کنارہ یا حد۔ تَشْبِيهُ شَفَوَانٍ۔
 ج۔ اَشْفَاءٌ۔



الْأَشْفَى - جس کے ہونٹ آپس میں نہ ملیں۔
 کھلے ہونٹوں والا۔
 شَفَى يَشْفِي شِفَاءً - اللّٰهُ فُلَانًا مِنْ مَّرِيضِهِ - اللہ تعالیٰ کا کسی کے مرض کو کھودینا۔ زائل کر دینا۔ صحت یاب کرنا۔ فُلَانٌ فُلَانًا شَفَا مَکْتَنًا۔
 - الشَّمْسُ - غروب کے قریب ہونا۔
 - وَشَفَى شَقًّی الْهَلَالُ غُرُوبًا ہونا۔
 شَفَى - الْمَرِيضُ - بیمار کا تندرست ہونا۔ صحت پانا۔
 أَشْفَى - اِشْفَاءً - فُلَانًا - شفا طلب کرنا۔
 - عَلَيْهِ قَرِيبٌ ہونا۔ اسی سے ہے "أَشْفَى الْمَرِيضُ عَلَى الْمَوْتِ" بیمار کا موت کے قریب آ پہنچنا۔ الْعَلِيلُ۔
 بیمار کا صحت پانے سے رکتا نہ پانا۔
 - الْمُسَافِرُ - مسافر کا آخری رات کی چاندنی میں چلنا۔ الْمَرِيضُ - بیمار کو دو بتانا۔ کہتے ہیں "أَشْفِيْجِي" یعنی مجھے ایسی چیز تاد جو شفا نصیب کرے۔
 أَشْفَاهُ الشَّيْءُ - صحت بخش چیز دینا۔
 تَشَفَى - مِنْ غَضَبِهِ - غصہ سے ٹھنڈا ہونا۔ تَشَفَى مِنْ فُلَانٍ - دشمن کو ایذا دے کر دل ٹھنڈا کرنا (دِاشْتَنَفَى) بکڈنا۔ شفا حاصل کرنا۔
 اسْتَشْفَى - بہ۔ شفا طلب کرنا۔ فُلَانٌ يُسْتَشْفَى بِرَأْيِهِ - فلاں کی رائے سے شفا حاصل کی جاتی ہے۔ الْمَرِيضُ مِنْ عِلَّتِهِ - بیمار کا تندرست ہونا۔
 الشِّقَاءُ - مَم. دوا۔ ج. - أَشْفِيَةً - و ج. - أَشَافٍ۔
 الشَّافِي - فَا - مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَنَحْوِهَا - فائدہ مند دوا۔ الْجَوَابُ الشَّافِي - تسلی بخش جواب۔
 الْأَشْفَى - سَتَالِ - ج. - أَشَافٍ۔

شَقَّ (ن) شَقًّا - الشَّيْءُ - بھاڑنا۔ متفرق کرنا۔ اور اسی سے ہے "شَقَّ عَصَا الْقَوْمِ" - اس نے قوم کی جمیعت کو منتشر کر دیا۔
 شَقَّ فُلَانٌ الْعَصَا - فلاں جماعت سے الگ پیٹ گیا۔
 شَقَّ (ن) شَقًّا وَمَشَقَّةً - الْأَمْرُ - کام کا دشوار ہونا۔ عَلَى خُلَايْنِ - کسی کو مشقت میں ڈالنا۔ الْبَرَقُ - بجلی کا آسمان میں سیدھی پھیلنا۔ الْفَرْسُ - گھوڑے کا رفتار میں ایک طرف جھکنار۔
 شَقُوْقًا، النَّبْتُ - نبات کا اگنا۔ پھوٹنا۔ نَابُ الْبَعِيْرِ - دانت نکلنا۔
 - شَقْلُ الصُّبْحِ - صبح کا طلوع کرنا۔
 شَفَّقَ - الْحَطَبُ - لکڑی بھاڑنا۔ چیرنا۔
 - الْكَلَامُ - کلام پر حمل کرنا۔
 شَاقَّةٌ شِقَاقًا وَمَشَاقَّةً - مخالفت کرنا عداوت رکھنا۔
 تَشَفَّقَ - الْحَطَبُ - لکڑی کا پھٹنا۔ چرنا۔
 - الْفَرْسُ - گھوڑے کا لاغر ہونا۔
 کہتے ہیں "تَشَفَّقْتُ عَصَاهُمْ بِالْبَيْنِ" - ان کی جمیعت پر اگندہ ہو گئی۔
 تَشَاقَّ - الْقَوْمُ - باہم مخالفت کرنا۔ آپس میں عداوت رکھنا۔ الرَّجُلَانِ - آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتنا۔
 خوب جھگڑنا۔
 تَشَاقُّوْا - ثِيَابَهُمْ - ایک دوسرے کے کپڑے بھاڑ دینا۔
 الشَّقْ - بھڑکانا۔ بھڑکانا۔ بھٹنا۔
 چرنا۔ الْأَمْرُ - پر اگندہ ہونا۔ الْفَجْرُ - صبح کا طلوع کرنا۔
 اسْتَشَقَّ - الشَّيْءُ - آدھا لینا۔ الْكَلِمَةُ - مِنَ الْكَلِمَةِ - ایک کلمہ کو دوسرے سے مشق کرنا۔ الْفَرْسُ فِي عَدَاوَةٍ۔

گھوڑے کا دوڑنے میں دائیں بائیں جانا۔
 - فِي الْكَلَامِ أَوْ الْخُصُوصَةِ - کلام یا خصوصیت میں اپنے نکتہ سے ہٹ جانا۔
 الطَّرِيقُ فِي الْفَلَاةِ - بیابان میں راستہ طے کرنا۔
 الشَّقْ - مَم. دوز۔ پھٹن ترطن۔ صبح۔
 پھٹی ہوئی جگہ۔ مشقت۔ چیز کا آدھا حصہ۔ ج. - شَقُوْقٌ۔
 الشَّقْ - جَانِب. کنارہ۔ انسان کی ایک طرف۔ جس کی طرف انسان کی نظر ہو۔
 مشقت۔ آدھا۔ الْمَالُ الْبَيْنِي وَبَيْنَكَ شَقٌّ أَوْ شَقٌّ شَعْرَةٌ - مال میرے اور تمہارے درمیان برابر برابر۔
 الشَّقَّةُ - کپڑے وغیرہ کا لمبا ٹکڑا۔ دھبی۔
 پھاڑا ہوا ٹکڑا۔ پھٹا ہوا نصف حصہ۔ ج. شَقٌّ وَشِقَاقٌ۔
 الشَّقَّةُ وَالشَّقَّةُ - مسافت۔ دور کا سفر وہ راستہ جس کا طے کرنا راہرو کے لیے دشوار ہو۔ وہ رخ جہاں کا مسافر قصد کرے۔ مشقت۔ ج. - شَقَقٌ۔
 الشَّقِيقُ - دو حصوں میں پھٹی ہوئی چیز کا ایک حصہ۔ سگابھائی۔ نظیر۔
 الشَّقِيقَةُ - سگی بہن۔ باغات کے درمیان سخت زمین۔ بہت بارش۔
 مِنَ الْبَرَقِ - افق میں پھیلنے والی بجلی آدھے سر کا درد۔ ج. شَقَائِقُ۔
 النُّعْمَانُ - گل لالہ۔ واحد شَقِيقَةٌ۔
 النُّعْمَانُ۔
 الْأَشَقُّ - مِنَ الْخَيْلِ - دائیں بائیں دوڑنے والا گھوڑا۔ خَرَسُ الشَّقِ الْمُنْخَرِنِ - کشادہ نتھنوں والا گھوڑا۔
 الْمَشَقَّةُ وَالْمَشَقَّةُ - معورت۔ تکلیف۔ محنت۔ ج. - مَشَاقٌّ وَمَشَقَاتٌ۔
 شَقَّ (ن) شَقًّا وَشَقُوْعًا - النَّابُ - کچی اگنا۔ شَعْرُ الرَّاسِ - سر کے بالوں

میں لنگھ کر کے مانگ نکالنا۔ راسخہ
سر پھاڑنا۔ ذُلَانَا۔ کسی کی مانگ پر
مارنا۔
الْمَشْقَاءُ وَالْمَشْقَاءُ وَالْمَشْقَاءُ۔ لنگھ
شَقْعُ رِكْ شَقَاحَةً۔ بد شکل ہونا۔ بد نما
ہونا۔ صفت (شَقِيعٌ)
شَقْعُ رِفْ شَقَاحًا۔ الشَّيْءُ۔ توڑنا۔
الجوزة۔ اخروٹ کی گری نکالنا۔
اللَّهُ قَبِيحٌ بَنَانًا۔
شَاقِحَةُ مُشَاقِحَةٍ۔ آپس میں گالی
گلوچ کرنا۔
أَشَقَّحَةً۔ دور کرنا۔ أَشَقَّحٌ وَشَقَّحٌ
۔ البُسْرُ۔ کھجور کا رنگ پکھڑا۔
النَّخْلُ۔ درخت خرمایہ کھجور کا گدہ ہونا۔
شَقَّحًا لَهُ۔ دوری ہو اس کے لیے۔
الْأَشَقَّحُ۔ سرخ زرد رنگ ملا ہوا۔ مَوْنُتُ
شَقَّعًا۔ ہم۔ شَقَّعٌ۔
الشَّقِيقُ۔ سرخ رنگ کا۔
شَقْدُ رَسْ شَقْدًا۔ نظر بد تیزی سے
لگانا۔ بے نیند ہونا۔ صفت (شَقْدٌ وَ
شَقْدٌ وَشَقِيدٌ وَشَقْدَانِ)
شَقْدُ رَسْ شَقْدًا وَشَقْدُ رَسْ شَقْدًا۔
دور چلا جانا۔
شَقْدُ رَسْ شَقْدًا۔ دشمنی کرنا۔ دور کرنا۔
أَشَقْدًا۔ دھتکارنا۔
الشَّقْدُ وَالشَّقْدُ وَالشَّقْدُ۔ گرگٹ کا
بچہ۔ ہم۔ شَقْدَانِ وَشَقْدَاذِي۔
الشَّقْدُ۔ ہم۔ کہتے ہیں: مَا لَهُ شَقْدٌ
وَلَا نَقْدٌ۔ اس کے پاس کچھ نہیں۔
مَا بِهِ شَقْدٌ وَلَا نَقْدٌ۔ اس میں
کوئی نقص نہیں۔
الشَّقْدَانِ۔ بھڑبھڑات الارض۔ کیڑے
مکوڑے۔ بھٹ تیر کے چوڑے۔
الشَّقْدَانِ۔ ہم۔ شَقْدَانِ وَ الشَّقْدُ
وَالشَّقْدُ۔ گرگٹ۔ بھڑبھڑا۔

شَقْرُ رَسْ وَشَقْرُ رِكْ شَقْرًا وَشَقْرَةً
سرخ زرد رنگ ہونا۔ صفت (أَشَقْرُ)
مَوْنُتُ شَقْرًا۔ ہم۔ شَقْرٌ۔
أَشَقْرُ۔ گہرا سرخ زرد رنگ ہونا۔
الشَقْرُ۔ اہم کام۔ ضروری کام۔ ہم۔ شَقْرُ
۔ بَقْعَةُ شَقْرَةٍ۔ اس نے اس سے
اپنے حالات کی شکایت کی۔
الشَقْرُ۔ مرغ۔ بھوٹ۔ جَاءَ بِالشَقْرِ وَ
البَقْرِ۔ وہ بھوٹ اور مصیبت لایا۔
الشَقْرُ وَالْمَشْقِرَانِ وَالْمَشْقَارِي۔
الشَّقَارِي۔ سرخ رنگ کی نبات۔ یا کُلُّ لَالِہ
الشَّقَوَاتِ وَالْمَشَقَوَاتِ۔ فاختہ سے بڑا
ایک پرندہ۔
شَقَشَقَ شَقَشَقَةً۔ الجَمَلُ۔ اونٹ
کا ببلانا۔ الطَّيْرُ۔ پرندہ کا آواز کرنا۔
الشَّقَشَقَةُ۔ اونٹ کے منہ کا بھاگ جو
وہ بوقت مستی نکالتا ہے۔ ہم۔
شَقَاتِي۔ فَلَانٌ شَقَشَقَةً قَوْمًا۔
فلاں اپنی قوم میں شریف اور فصیح ہے۔
شَقَصَ۔ الْمَذْبُوحَةُ۔ ذبیحہ کو کاٹ
پیٹ کر حصہ داروں کے لیے برابر
حصے لگانا۔
الشَّقَصُ۔ حصہ نصیب۔ چیز کا یارین کا
ٹکڑا یا قطعہ۔
الشَّقِصُ۔ شَرِیک، شَرِک۔ حصہ۔ عمدہ
چھوٹا۔ بہت میں سے چھوٹا۔
الْمَشَقَصُ۔ چوڑا پھل یا چوڑے پھل کا تیر۔
ہم۔ مَشَاقِصُ۔
الْمَشَقِصُ۔ قصائی۔
شَقْعُ رِفْ شَقْعًا۔ فِي الْإِنَاءِ رَتْنٌ مِنْ
مَنْوَالِ كَرِينَا۔
الشَّقْفُ۔ ٹیکری ٹیکری کے ٹکڑے۔ واحد
(شَقْفَةٌ)
الشَّقَافُوفُ۔ بڑا ستھوڑا۔
شَقْلُ رَسْ شَقْلًا۔ الدَّاهِمُ۔ دُراہم

کا وزن کرنا۔
شَقْنُ رَسْ شَقْنًا۔ وَشَقْنُ الْعَطِيَّةِ۔
بخشش کم دینا۔ أَشَقْنُ الرَّجُلِ۔
شَقْنُ رِكْ شَقْنَةً۔ الْعَطَاءُ۔ کم ہونا۔
صفت (شَقْنٌ وَشَقْنٌ وَشَقِينٌ)
الْمَشَقْنُ۔ بیہ کاکلی۔ جوتے ہوئے اور
ہوئے ہوئے کھیت کی مٹی کو برابر کرنے
کا آلہ۔
شَقَّالِيَتُ شَقَّوْا وَاشَقَّوْا۔ اللَّهُ فَلَانًا
بدبخت بنانا۔ أَشَقَّ شَعْرَةً بِنَکْشِی کرنا۔
شَقَّی لِيَشَقَّ شَقًّا وَشَقَّاءُ وَشَقَّادَةٌ
وَشَقَّوَةٌ وَشَقَّوَةٌ۔ بدبخت ہونا۔
صفت (شَقَّی)۔ ہم۔ أَشَقَّیَاءُ۔
شَقَّی۔ فَلَانًا۔ بدبختی میں بڑبڑانا۔ مقابلہ کرنا۔
۔ هُوَ فِي الْحَرْبِ وَنَحْوَهَا۔ لَطَائِي
وغیرہ میں مشغول کرنا۔ هُوَ عَلَيَّ
کَدًّا۔ صبر کرنے میں مقابلہ کرنا۔
الشَّقَائِي۔ فَا۔ مِنَ الْجَبَالِ۔ پہاڑ کا لمبا
نکلا ہوا گوشہ۔ ہم۔ شَوَائِقُ وَ
شَقَّيَانِ۔
الشَّقَا وَالشَّقَاءُ۔ مہ۔ سختی۔ بدبختی۔
الْمَشَقِّي۔ لنگھی۔
شَكُّ رَسْ شَكًّا۔ فِي الْأَمْرِ شَكٌّ وَشِبْہ
کرنا۔ صفت فاعلی۔ (شَاك) صفت مفعولی
(مَشْكُوكٌ) فِیہ۔ عَلَیْہِ الْأَمْرُ۔
معاملہ مشتبہ ہونا۔ هُوَ بِالرُّمُحِ۔ نیزہ
مار کر ہڈی تک بٹھا دینا۔ شَكَّتْ
الشُّوْكَ رَجُلًا۔ پاؤں میں کانٹا
چھبنا۔ شَكَّ الْقَوْمُ بِيَوْمِهِمْ۔ قوم
کا اپنے گھروں کو ایک ڈھنگ یا ایک
قطار پر بنانا۔ الْغِيَاظُ الشُّوبُ۔
درزی کا کپڑے میں دور دور ٹانگے
لگانا۔ لَا يَنْبَغِي الْبِلَادَ مَلِكٌ طے کر
کے پہنچنا۔ الشَّيْءُ إِلَى الشَّيْءِ۔ ایک
چیز کو دوسری سے ملانا۔ تَجَلَّيْهِ الْأَمْرُ

ش

دشوار ہونا۔ فی السلاخ۔ پورے
ہتھیار پینا۔ کامل مسلح ہونا۔ صفت
رَشَاكَ السَّلَاحَ وَشَاكَ فِي
السَّلَاحِ ج۔ شُكَكَ
شَكَ (ف) شُكًا۔ فَلَانًا وَلِیْهِ۔
مائل ہونا۔

شُكَّكَ۔ شک میں ڈالنا۔
شُكَّكَ۔ فی الامر کسی امر میں شک
کرنا۔ شبہ کرنا۔
الشُّكُّ۔ مص۔ شک شبہ۔ ہڈی میں جوڑی
سی درز۔ جوہ مارنے کی دوا۔ ج۔ شُكُّوكُ
الشُّكَّةُ۔ اسم۔ نوع۔ ہتھیار کھڑی وغیرہ
کو تنگ کرنے کے لیے کڑی کا پچر۔ ج۔
شُكَّكَ۔

الشُّكَّةُ۔ مسافت۔
الشَّاكَةُ۔ الشَّاكُ کا مؤنث۔ حلق کا ورم۔
ج۔ شُوكُ۔ بُيُوتُ شُكَاكٍ۔ ایک
قطار میں بنے ہوئے مکانات۔
الشُّكَاكَةُ۔ زمین کا کونہ۔

الشُّكِيكَةُ۔ طریقہ۔ عادت۔ دَعَا
عَلَى شُكِيكَتِهِ۔ اس کو اس کی
عادت پر چھوڑ دو۔ فرقہ۔ مہوہ کی
ٹوہری۔ ج۔ شُكَايَكَ دَشُكَّكَ۔
المَشْكُتُ۔ سوراخ کرنے کا اوزار۔ زرہ۔ ج۔
مَشَاكَ۔

شُكْرُ دَن، شُكْرُ اَوْشُكُوْدَا وَشُكْرُ اَنَا۔
الوجہ۔ لہ۔ کسی احسان و بھلائی
پر تعریف کرنا۔ شکر یہ ادا کرنا۔ شکر
کرنا۔ شُكْرُ اللّٰهِ سَعِيكَ۔ اللہ کو
تمہاری کوشش کا بدلہ دے۔ صفت
(شَاكِرٌ) ج۔ شَاكِرُوْنَ دَشُكْرُ۔
شُكْرُ دَن، شُكْرًا۔ الناقلة۔ اونٹنی
کے تھن کا دودھ سے بھر جانا۔ صفت
دَشُكْرَةُ ج۔ شُكْرَات دَشُكَارِی
وَشُكْرِی وَدَمَشْكَارِ الشُّجْرَةُ۔

درخت کی جڑیں شاخ نکلتا۔
الوجہ۔ بخل کے بعد سخاوت کرنا۔
أَشْكُرُ۔ الصَّرْعُ۔ تھن کا دودھ سے بھرنا
صفت (شُكْرَان، مُزْتَشْكِرِی
ج۔ شُكَارِی وَشُكَارِی۔ عَيْنُ
شُكْرِی۔ آنسوؤں سے بھری ہوئی
آنکھ۔

مَشَاكِرُ۔ شکر گزاری دکھانا۔ الحدیث۔
گفتگو شروع کرنا
أَشْتَكِرُ۔ الصَّرْعُ۔ تھن کا دودھ سے
بھرنا۔ اَشْتَكِرْتُ الْوِیَاحُ۔ ہواؤں
کا تیز چلنا۔ السَّحَابُ۔ آسمان کا بارش
برسنا۔ الرَّجُلُ فِي عَدُوٍّ۔
دوڑنے میں کوشش کرنا۔ اَشْتَكِرُ
الْبَرْدُ اَوَ الْحَرُّ۔ سردی یا گرمی کا تیز
ہونا۔ الشَّجَرُ۔ درخت کی جڑ میں
شاخ نکلتا۔ الْجَنَيْنُ۔ پیٹ کے
بچہ کا روٹیں دار ہونا۔

كَشَكْرَ۔ لہ۔ شکر یہ ادا کرنا۔
الشُّكُورُ۔ بہت شکر گزار (مذکر و مؤنث)
ج۔ شُكْرُ۔ اللہ تعالیٰ جو تھوڑے
عمل پر زیادہ بدلہ دیتا ہے۔
الشُّكْرِیُّ۔ بڑے درخت کی جڑ میں اُگنے
والی شاخ۔ بڑی گھاس میں چھوٹی کھال۔
یا بڑے پھول یا بالوں میں چھوٹے پر
یا بال۔ وہ بال جو گدی اور چہرہ کے
پاس ہوں۔ درخت کی پھال۔ شُكْرِیُّ
الایلی۔ چھوٹے اونٹ۔

الشُّكْرَةُ۔ اسم مرۃ۔ وِدَالُ الشُّكْرِیَّةِ تَعْمَلُ
کا دودھ سے بھرنا۔
الشُّكْرُوكَانِ وَالشُّكْرِیُّوَانِ
ایک زہر پلا ہوا۔

الشَّاكِرِیُّ۔ نوکر۔ غلام۔ چاکر۔ ج۔
مَشَاكِرِیَّة۔ الشَّاكِرِیَّة۔ نوکر کی
اجرت۔ عام لوگ شاکریہ۔ ٹیڑھے

سرے کی چھری کو کہتے ہیں۔
شُكْرَةُ دَن، شُكْرُ۱۔ انگلی چھونا۔ زبان
سے تکلیف دینا۔ شُكْرَةُ بِالْوُجْهِ۔
نیزہ مارنا۔
الشُّكْرُ وَالشُّكْرُ۔ بدخلق۔ الشُّكَاز۔
فسادی۔ بدخو۔
شُكْسُ دَن، شُكْسَاةٌ وَشُكْسُ دَن،
شُكْسَا۔ بخیل ہونا۔ سخت مزاج ہونا
صفت (شُكْسُ وَشُكْسُ) ج۔
شُكْسُ۔

شَاكْسَاةٌ مُشَاكْسَاةٌ۔ مخالفت کرنا۔ سختی
سے پیش آنا۔
تَشَاكَسَ۔ القوم۔ آپس میں مخالفت کرنا۔
الشُّكَيْسُ۔ سخت۔ الشُّكْسُ۔ بخیل۔
سخت مزاج۔

الشُّكْسُ وَالشُّكَيْسُ۔ بدخلق۔
الشُّكِيصَةُ۔ وہ اونٹنی جس کے تھنوں
میں نہ دودھ ہو نہ وہ حاملہ ہو۔
شُكَمَ دَن، شُكَمَا۔ المَرِیضُ۔ بیمار کا
بہت آہ و زاری کرنا۔ صفت (شَاكِمٌ
وَشُكَمٌ وَشُكُوْعٌ)۔ الزَّرْعُ۔
کھیتی کا زیادہ دانوں والی ہونا۔
الوجہ۔ غضبناک ہونا۔ درد مند ہونا۔
أَشْكَعُ۔ غضب ناک کرنا۔ ملول کرنا۔
ناراض کرنا۔

شُكَل دَن، شُكَلَا وَشُكَلِ۔ الامرُ۔
مشتبہ ہونا۔ شُكَلٌ وَشُكَلٌ۔
العنب۔ انگور کا کپنے لگنا۔ شُكَلٌ
وَشُكَلٌ الْكِتَابُ۔ عبارت پر اعراب
لگانا۔

شُكَلٌ وَشُكَلِ۔ الدَّابَّةُ بِاللِّشْكَالِ۔
جانور کے پائے بند ڈالنا۔
شُكَلٌ۔ الشَّیْءُ۔ تصویر بنانا۔ شُكَلْتُ وَ
شُكَلْتُ الْمَرْءَ شُعُوْهَا۔ عورت کا
دائیں اور بائیں جانب زلفیں بٹنا۔

شَکَلٌ دس شَکَلًا۔ سرخ سفید ہونا۔ الشَّيْءُ
سرخ مائل سفید ہونا۔ الْمَوَاقِعُ عورت
کاناز و انداز والی ہونا۔

أَشْکَلُ الْأُمُورِ مُشْتَبِهٌ هُونًا۔ الْعَذَبُ
انگور کا پکنے لگنا۔ الْخَلُّ کھجور کا
پک کر تیار ہونا۔ الْبِتَابُ کتاب
پر اعراب لگانا۔ الشَّيْءُ مشکل ہونا
۔ الْمَرِيضُ بیمار کا روبہ صحت ہونا۔

شَاكَلَهُ مُشَاكَلَةً۔ مشابه ہونا۔ موافق
ہونا۔

تَشَكَّلَ۔ صورت اختیار کرنا۔ الْعَذَبُ
انگور کا پکنے لگنا۔

تَشَاكَلًا۔ ایک دوسرے کے مشابه ہونا
ہم رنگ ہونا۔

اِشْتَكَلَ وَاِشْتَشَكَلَ۔ الْأُمُورُ معاملہ کا
شبه والا ہونا۔ شکی ہونا۔

الشَّكْلُ مِم۔ مشابهت۔ مثل نظیر۔ دُشَوَار
امر۔ قصد و ارادہ کہتے ہیں۔ سَأَلْتُكَ
عَنْ شَكْلٍ فَلَا تَنْ۔ میں نے فلاں

کے ارادہ کو دریافت کیا۔ عورت کا ناز
و غرہ۔ ایک حسی یا دہی چیز کی شکل و

صورت۔ ج۔ أَشْكَالٌ وُشْكَوْ۔
الْأَشْكَالُ موتی یا چاندی کے

زیورات جو ایک دوسرے سے ملتے
جلتے ہوں۔ أُمُورٌ أَشْكَالٌ۔ مشتبہ

کام۔ شَکْلُ الْكِتَابِ کتاب کی
حرکت۔ شَکْلُهُ۔ ایک حرکت۔

الشَّكْلُ۔ مثل عورت کا بالکپن۔ ناز و غرہ۔
الشَّكْلَةُ۔ سرخی سے ملی ہوئی سفیدی۔

و الشَّاکِلُ، مشابهت۔
الشَّكَالُ جانور کے پائے بند۔ وہ دھاگا

جو اونٹ کے پیش بند اور تنگ کے
درمیان باندھتے ہیں۔ اگلی پچھلی ٹانگ

باندھنے کا بندھن۔ ج۔ شَکْلٌ۔
الشَّكَالُ فِي الْخَيْلِ گھوڑے کی

تین ٹانگوں کا سفید رنگ اور چوتھی کا
خلاف رنگ ہونا۔

الشَّاکِلَةُ مَوْنَتٌ۔ الشَّاکِلُ شکل طرف
جانب۔ طریقہ۔ راستہ۔ نیت۔ حاجت

کو کہ۔ ج۔ شَوَاكِلٌ۔ الشَّوَاكِلُ
وہ راستے جو بڑے راستہ سے نکلنے

ہوں کہتے ہیں۔ هَذَا طَرِيقٌ ذُو
شَوَاكِلٍ اس راستہ سے بہت سے

راستے بچھتے ہیں۔
الْأَشْكَالُ سرخی مائل سفید جس کی آنکھ کی

سفیدی میں سرخی ہو۔ هَذَا أَشْكَالٌ بِهِ۔
یہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ ج۔ شَکْلٌ

الشَّكْلَاءُ۔ حاجت۔ الشَّوْكَلَةُ ناحیہ
طرف۔ جانب۔ الشَّوْكَلُ کا واحد

بمعنی عو سبج (ایک کانٹے دار
درخت)۔

الْأَشْكَالَةُ التَّهَاسُ مشابهت۔ فَبِهِ
أَشْكَالَةً مِنْ آيَةٍ۔ اس میں اس

کے باپ کی مشابهت ہے۔ حاجت۔
الشَّكِيلُ لگام کے لہے پر لگا ہوا خون لا

بھاگ۔
المُشْکِلُ وَالْمُشْکِلَةُ دُشَوَار یا مشتبہ امر۔

ج۔ مَشَاكِلٌ وُ مَشْكِلاتٌ
المَشْكَوْلُ۔ مِنَ الْخَيْلِ وہ گھوڑا جس کی

تین ٹانگیں سفید رنگ کی اور چوتھی خلاف
رنگ کی ہو۔ پائے بند سے بندھا ہوا۔

المُشْکَلُ۔ صورت و شکل والا۔
شَکْمَةُ دَنٍ شَکْمًا۔ دینا۔ بدلہ دینا۔

فَلَانًا کسی کو رشوت دینا۔
شَکْمَةُ دَنٍ شَکْمًا وُ شَکْمًا دَیْنًا۔

شَکْمًا دَیْنًا۔ شَکْمًا دَیْنًا۔ شَکْمًا دَیْنًا۔
شَکْمًا دَیْنًا۔ شَکْمًا دَیْنًا۔ شَکْمًا دَیْنًا۔

لگام کا وہ لوبا جو گھوڑے کے منہ میں
رہتا ہے۔ ج۔ شَکَاكِمٌ وُ شَکْمٌ وُ

شَکِيمٌ۔ ذُو شَکِيمَةٍ۔ خود دار غیرت
مند۔ تابع نہ ہونے والا۔

شَاكَلَهُ شَاكَلًا وُ مُشَاكَلَةً۔ مشابه
ہونا۔

أَشْكَلَهُ۔ الْأُمُورُ دُشَوَار ہونا۔
تَشَاكَلًا ایک دوسرے کے ساتھ مشابه ہونا

شَاكَلَهُ شَاكَلًا وُ شَاكَلًا وُ شَاكَلًا۔
وَشَاكَلَةً وُ شَاكَلَةً وُ شَاكَلَةً۔

إِلَيْهِ زَيْدًا۔ شکایت کرنا۔ شکایت
کرنے والا (شاک) اور جس کی شکایت کی

جائے وہ (مَشْکُوٌّ وُ مَشْکِيٌّ) ہے۔
جس سے شکایت کی جائے، اس کو

(مَشْکُوٌّ) اور شکایت کو (شَکْوَى)
کہتے ہیں۔ شَاكَا الْأُمُورَ الْحَلَّةَ۔ ذکر

کرنا یا دروند ہونا۔ مَرْضَةُ اللَّطِيبِ
طیب سے اپنے مرض کی حالت بیان کرنا۔

أَمَرَهُ إِلَى اللَّهِ۔ ظاہر کرنا۔
شَاكَا يَشْكُو شَكْوًا وُ شَكْوَى وُ شَاكَاةً۔

الْمَرَضُ فَلَانًا۔ بیماری کا کسی کو دروند
بنانا۔

شَکِيٌّ تَشْكِيةً۔ الشَّاکِيٌّ شکایت ماننا۔
أَشْكَى أَشْكَاءً۔ فَلَانًا شکایت قبول کرنا

شاکل پانا۔ کسی کے سامنے اپنی شکایت
بیان کرنا یا نکالیں شوق کا ذکر کرنا۔

کسی کے ساتھ قابل شکایت برتاؤ کرنا۔
کسی کی شکایت کو دور کر دینا۔ دُفْعًا۔

فَلَانًا مِنْ فَلَانٍ کسی سے کسی کی
خوشنودی کے لیے کوئی چیز لینا۔

شَاكَاةً۔ شکایت کرنا۔
تَشْكَى۔ بیمار ہونا۔ إِلَيْهِ۔ شکایت کرنا

۔ مِنْ جُورِهِ۔ زخم سے دروند ہونا۔
اِشْتَكَى۔ بیمار ہونا۔ إِلَيْهِ۔ شکایت کرنا

۔ مِنْ جُورِهِ۔ زخم سے دروند ہونا۔

ش

تَشَاكِي تَشَاكِيَا - القوم - ایک دوسرے کی شکایت کرنا۔
الشُّكُو والشُّكُوِي والشُّكَاء والشُّكَاة
والشُّكُوَاء - بیماری - الشُّكُوِي - جس چیز کی شکایت کی جائے۔ ج۔
شُّكَاوِي - شُكَاة - شُكَاة کا اسم مرہ - بیماری - ج۔
شُّكُوَات وشُّكَاة - (وَالشُّكِيَّة) دوہ یا پانی کے لیے چڑے کا برتن۔
الشُّكِي - جس کی شکایت کی جائے۔ درومند دیکھی۔ مَوْنَت (شُّكِيَّة) - ج۔
شُّكَايَا - (وَالشُّكَاة) شکایت کرنے والا۔ تھوڑی بیماری والا۔ رَجُلٌ شَاكِي السَّلَام - ہتھیار بند۔ رُعب داب کا آدمی۔
الشُّكَاة - عیب۔
المِشْكَاة - طاق - چراغ رکھنے کا طاق۔
شُكِي يَشْكِي شُكْيًا - اِلْبِيَّة - شکایت کرنا۔
الشُّكِيَّة - بقیہ۔
شَلَّ (دَن) شَلًّا - الثَّوْب - کپڑے پر ہلکی سلائی سینا۔ شَلَّتِ الْعَيْنُ دَمْعَهَا - آنکھ کا آنسو بہانا۔
الدَّرْعَ وشَلَّهَا عَلَيْهِ - زرہ پہننا۔
الشُّعَى - کاٹنا۔
شَلَّ (دَن) شَلًّا وشَلًّا - اِلْبِل - اونٹوں کو ہانکنا۔ ہکانا۔ الصُّبْحُ يَشَلُّ الضُّلَامَ - صبح تاریکی کو بھگا دیتی ہے۔
شَلَّتْ (دَس) شَلًّا وشَلًّا وشَلَّتْ وَاَشَلَّتْ (شَلًّا) - يَلُّ - ہاتھ کا سونکنا بیکار ہونا۔ صفت (اَشَلَّ) ہاتھ (شَلَّ) - ج۔ شَلَّ - جو شخص تیر اندازی و نیزہ بازی میں استاد ہوتا ہے اس کے حق میں دعا کے طور پر کہتے ہیں لَا شَلَّتْ يَدَاكَ اَوْ لَا شَلَّتْ عَشْرَكَ - یعنی خدا کرے،

تھارے ہاتھ یا تھاری دس انگلیاں بیکار نہ ہوں۔
الْأَشَلَّ - شُكَب - ہاتھ والا ہونا۔ اِنْشَلَّ - المَطَرُ - بارش کا برسنا۔ السَّبِيلُ سِيلَابٌ کا بڑھتا شروع ہونا۔
الذُّبُّ فِي الْغَنَمِ - بھیڑیے کا بکریوں میں تباہی مچانا۔ اِنْشَلَّتِ اِلْبِلُ - اونٹوں کا بھاگنا۔
شَلَّالٍ - بنی علی الکسر - شَلَّل - کا اسم۔ تیر انداز کو دعا دینے کے موقع پر کہتے ہیں۔ لَا شَلَّالٍ - الشَّلَل - مم - کپڑے کا داغ جو دھونے سے نہ جائے۔ ہاتھ کی خرابی۔
الشَّلَلُ والشَّلَلُ والشَّلُولُ - تیز خوش مزاج ساتھی۔
الشَّلَال - متفرق لوگ۔
الشَّلَّةُ - اسم مرہ (وَالشَّلَّةُ والشَّلِي) دور کا مقصد سفر کی سمت۔
الشَّلِيلُ - اولی کپڑے کا ٹکڑا جو جانور کے پیٹ پر کبھی وہ کے پیچھے ڈالا جاتا ہے۔
چھوٹی زرہ جو بڑی زرہ کے نیچے پہنی جاتی ہے۔ کرتا جو زرہ کے نیچے پہنا جاتا ہے۔ وادی کے درمیان پانی بننے کا بڑا نالہ۔ ج۔ اَشَلَّة -
الشَّلَالَات - آبشار - واحد (شَلَّال) المِشَلَّ - گردن پر ڈالنے کا کپڑا۔ رَجُلٌ مِشَلَّ - تیز چلنے والا۔ ابھی صحبت والا۔
شَلَّتْ - کَشَلِيحًا - نہ لگا کرنا۔
الشَّلْحَاءُ والشَّلْحِي - تیز تلوار۔ ج۔ شَلْح -
المِشَلْح - منع - حمام کا وہ کمرہ جہاں کپڑے اتارے جاتے ہیں۔
شَلْحَتَهُ (دَن) شَلْحًا - بالسَّيْف - کاٹنا۔
الشَّلْح - مم - اصل - جڑ - آدمی کی اذناؤ۔

شَلَّشَلْ شَلَّشَلَةً وشَلَّشَلًا - الماء پانی کا ٹپکنا۔ الماءُ وبِالماء - پانی متفرق چھڑکنا۔ الماءُ - پانی ٹپکانا۔ السَّيْفُ الدَّم - تلوار کا خون گرانا۔ صفت مفعول (شَلَّشَلْ وشَلَّشَلْ وَاَشَلَّشَلْ) -
شَلَّشَلْ - الماءُ - پانی کا بکھڑا۔ پھیلنا۔
السَّيْفُ بِالدَّم - تلوار کا خون گرانا۔ کہتے ہیں۔ شَجَاءٌ وَجَرَحُهُ - يَتَشَلَّشَلُ دَمًا - وہ ایسی حالت میں آیا کہ اس کا زخم خون ٹپکا رہا تھا۔
الشَّلَّشَلُ - ٹپکنے والی مشک - ماءٌ شَلَّشَلٌ - مسلسل ٹپکنے والا پانی۔
الشَّلَّشَلُ والشَّلَّشَلُ - مِنِ الرِّجَالِ - تیز و سبک دست خوش مزاج۔
الشَّلَطَاءُ - چھری - الشَّلَطَةُ - باریک اور لمبا تیر۔ ج۔ شَلَطٌ -
شَلَعَرَفٌ شَلْعًا - الرَّاس - سر کپکانا۔
الشَّلَفُ - لوسہ کی سلاخ۔
الشَّلَافُ - آبشار - آبشار گرنے کی جگہ۔
الشَّلَافَةُ - مِنَ النَّسَاءِ - بدکار عورت۔
شَلَّهَتْ (دَن) شَلْعًا - لہائی میں پھاڑنا یا چیرنا۔
- كَبَسُوهُ كَسِي كَوْرَافَةً سَ مَارَنَ -
الشَّلَقُ والشَّلَقُ - نرم کانٹوں کی ایک مچھلی۔ ج۔ اَشَلَقٌ -
الشَّلَقَاءُ - چھری۔
الشَّلَقَةُ والشَّلَقَةُ - گوہ کے انڈے۔
الشَّلَقَةُ - گھوڑے سدھانے والے۔
الشَّلَاقُ - فقیروں کا پھیلا۔
الشَّلَاقِي - مٹھائی بیچنے والا۔ مٹھائی یا مٹھائی کا بہت دلدادہ۔
الشَّلِيقُ - بننے میں منہ کھولنے والا۔
الشَّلِكَةُ والشَّلِكَةُ والشَّلَكَةُ - گھوڑوں میں اگنے والا کڑوا دانہ۔
الشَّلْمُ - چنگاری۔



شَلَا يَشْلُو شَلَوًا - چلنا - الشَّيْءُ - بلند کرنا
او بچا کرنا۔

أَشْلَى إِشْلَاءً - اذْهَبَ عَلَى الصَّيْدِ -
کچھ کو شکار پر اکسانا۔ ابھارنا - الناقَةُ
اُونٹنی کو دوہنے یا چرنے کے لیے بلانا۔
اشْعَلَى - فَلَانًا - جھڑانا۔

اسْتَشْلَى - غَضَبْنَاكَ هُونًا - ۵ - جھڑانا۔
الْيَشْلُو - جسم کا عضو - اُونٹنی کا بچہ - ہر کھال
کھینچی ہوا جس میں سے کچھ کھایا گیا ہو۔
اور کچھ چھوڑ دیا گیا ہو - جہ - اَشْلَاءُ -

أَشْلَاءُ الْإِبْرَامِ - لگام کے تسمے -
أَشْلَاءُ الْإِنْسَانِ - انسان کے اعضا۔
الْيَشْلُو وَالشَّلَا - ہر چیز کا جسم۔

الْمَشْلَى - ہر چیز کا بقیہ -
الْمَشْلِيَّةُ - مال کا بقیہ - گوشت کا ٹکڑا -
جہ - شَلَايَا -

الْمَشْلَى - نَحِيفٌ - دُوبلا۔
شَمَدُ (دس) شَمَاوُشٍ شَمِيمًا وَشَمِيمِي -
الْوَرْدُ - سوگھنا - (دس) شَمَمًا تکر کرنا۔

- الْجَبَلُ أَدَا الْآلْفُ - پہاڑ یا ناک
کی چوٹی کا بلند ہونا - صفت (دس) شَمَمٌ
وَشَمِيمٌ شَمَدٌ - آزمائش کیا جانا۔

شَمَمٌ - الزَّهْرُ - پھول سوگھنا - ۵
الزَّهْرُ - پھول سوگھانا۔

أَشَمَمٌ - مراد بچا کر کے گلزار - ۵ الْوَرْدُ
کسی کو گلاب کا پھول سوگھانا۔
عَنِ الْأَمْرِ - الگ ہونا - أَشَمَمٌ

الْقَارِيءُ الْحَقِيقُ - قاری کا اِشمام کر
کے وقف کرنا۔ کہتے ہیں "اِشْمَمِي
يَدَاكَ - مجھے اپنا ماتہ دو۔

شَامًا مَشَامَةً وَكُشَامًا وَتَشَامًا - ایک
دوسرے کو سوگھانا۔

اِشْتَمَمَ - الشَّيْءُ - سوگھنا۔
تَشْتَمَمُهُ - آہستہ آہستہ سوگھنا۔

اِسْتَشَمَدُ - سوگھنے کی درخواست کرنا۔

سوگھنا۔
الشَّمَّةُ - مِم - سوگھائی - الشَّامَةُ - سوگھنے
کی جس -

الشَّمَمُ - مِم - نزدیکی - دوری - (مندر)
خوبصورتی اور ہمواری کے ساتھ ناک کے
بالنسہ کا اٹھا ہوا ہونا۔

الشَّمِيحُ - مِم - بلند - عمدہ خوشبو -
الْأَشْمُ - مغرور سردار - کریم - بلند ناک
والا - مَوْنُثٌ - شَمَاعٌ - جہ - شَمَدٌ

الشَّمَامُ وَالشَّمُومُ - بہت سوگھنے والا۔
الشَّمَامُ - ایک زرد رنگ کا خرہ زرد - سفید
واحد (شَمَامَةٌ) جہ - شَمَامَاتٌ -

الشَّمَامَاتُ - عمدہ خوشبوئیں -
الْإِشْمَامُ - قاریوں اور غویوں کے نزدیک
ہونٹ کے ساتھ بغیر آواز نکلے ہوئے

حرکت کی طرف اشارہ کرنا۔
الْمَشْمُومُ - منع سوگھی ہوئی چیز - مُشَاكٌ -
شَمِيتُ (دس) شَمَاتًا وَشَمَاتَةً - بفلان

کسی کی مصیبت پر خوش ہونا - صفت
فاعِل (شَامِيتٌ) جہ - شَمَاتٌ -
صفت مفعول - (مَشْمُوتٌ) بدلہ -

شَمَدٌ - الْعَاطِسُ وَشَمَدٌ عَلَيْهِ -
چھینک لینے والے کو یَرْحَلُ اللّٰهُ
کہہ کر دعا دینا یا کسی کے حق میں یہ دعا

کرنا کہ وہ ایسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو کہ
کوئی اس پر خوش ہو - محسوم کرنا۔
شَمَدٌ بَيْنَهُمَا - جمع کرنا۔

أَشْمَمَتَهُ - اللّٰهُ يَعْلَمُ - دشمن کی تکلیف
سے خوش کرنا۔

تَشَمَّتْ - الْقَوْمُ - قوم کا بغیر غنیمت کے
ناکام لوٹنا۔

الشَّامِيتُ - فَا - مصیبت زدہ پر خوش
ہونے والا - جہ - شَمَاتٌ -
الشَّامِيتَةُ مَوْنُثُ الشَّامِيتِ - جانور کی

ٹانگ - جہ - شَوَامِيتٌ بَاتٌ يَلِيكَةُ

الشَّوَامِيتُ - اس نے سخت مصیبت
میں رات گزاری - طَوْعُ الشَّوَامِيتِ -
دشمنوں کی خواہش کو پورا کرنے والا۔

الشَّمَاتُ وَالشَّمَاتِي - نامراد - ناکام لوگ -
شَمَجَةٌ (دس) شَمَجًا - الشَّيْءُ - ملانا -
الشَّوْبُ - کپڑے پر دودھ اور دھواں لگانا۔

شَمَجَةٌ عَنْ كَذَا - بٹانا - الگ کرنا۔
- فَلَانًا - جلدی کرنا۔

الشَّمَا جہ - انگور کا بقیہ جو کھانے کے بعد
پھینکا جائے - نَاقَةُ شَمَجَةٍ - تیز
رفتار اُونٹنی۔

شَمَجَرٌ - الرَّجُلُ - کسی کا خوف زدہ کی
طرح دوڑنا۔
الشَّمَحَطُ وَالشَّمَحَاطُ وَالشَّمَحُوطُ - بہت

لمبا۔
شَمَحَرٌ (دس) شَمَحًا وَشَمُوحًا - الْجَبَلُ
پہاڑ کا بلند ہونا - صفت (شَامِحٌ) جہ -
شَمَحَرٌ - مَوْنُثُ شَامِحَةٍ - جہ -

شَمَاوِخٌ وَشَامِحَاتٌ (دس) وَشَمَحَرٌ
أَنفَهُ بِأَنفِهِ - تکر و تکر سے ناک
پر ٹھکانا - صفت (شَمَاخٌ) -

تَشَامَحٌ - بلند ہونا - تکر کرنا۔
الشَامِحُ فَا - تَسَبُّ شَامِحٌ - شریف
نسب - رَجُلٌ شَامِحٌ - متکبر آدمی۔

الشَّمَاخُ - شَامِحٌ - کامبالغہ - جَبَلٌ
شَمَاخٌ - بہت بلند پہاڑ -
(مَفَاذَةُ) شَمُوحٌ وَشَمَحَرٌ - دور تک

پھیلا ہوا بیابان۔
شَمَحَرٌ - شَمَحَرَةٌ - تکر کرنا۔ اِشْمَحَرٌ
اِشْمَحَرًا - الشَّيْءُ - دراز ہونا۔

الْجَبَلُ - پہاڑ کا بلند ہونا۔
الشَّمَحَرُ وَالشَّمَحَرُ - متکبر آدمی - بلند
نظر - مَوْنُثُ آدَمِيٍّ - اُونٹ -

الشَّمَذَرُ وَالشَّمَذَرُ وَالشَّمَذَارُ - تیز
رفتار۔



الشَّمِيدَةُ أَرَقَةُ وَالشَّمِيدَةُ حِجَّتُ نَوْحَانَ -
 شَمْرُ دَنْ (ض) شَمْرًا - تیز چلنا - تکبر سے
 چلنا - النخل - درخت خرما سے
 کھجوریں کاٹنا -
 شَمْرٌ تَشْمِيرًا - تیز گزر جانا - ع - تیز
 چلانا - الشَّيْءُ سَكْرًا - سیٹنا -
 السَّيْفِيَّةُ أَوِ الصَّفْوَةُ - چھوڑنا -
 الثَّوْبُ عَنْ سَاقِيهَا - کپڑے کو
 پنڈلیوں سے اٹھانا - فِي الْأُمْرِ
 چستی کرنا - لِلْأُمْرِ - کام کا ارادہ کرنا -
 کام کے لیے تیار ہونا - إِلَى الْمَكَانِ
 کسی جگہ کا قصد کرنا - شَمَرَتْ
 الْحَرْبُ وَشَمَرَتْ عَنْ سَاقِيهَا -
 لڑائی کا تیز ہونا - سخت ہونا -
 أَشْمَرُهُ - جلدی کرنا - ع بِالسَّيْفِ -
 تلوار سے ذبح کرنا -
 تَشَمَّرَ وَالشَّمَرُ - تیزی سے گزرنے یا تکبر
 سے گزرنے - لِلْأُمْرِ - کسی کام کا ارادہ
 کرنا یا اس کے لیے تیار ہونا -
 الشَّمْرُ - فِائِضٌ - سخی - وانا - بینا - تجربہ بہ
 پر کھنے والا -
 الشَّمْرَةُ وَالشَّمَارُ - ایک قسم کا پودا ہے -
 شَمْرٌ - شدید - سخت -
 الشَّمْرُ - ہیرا -
 الشَّمِيرُ وَالشَّمِيرُ وَالشَّمِيرُ -
 الشَّمِيرُ - کاموں کا گزرنے والا -
 تَجَرِبَةُ كَارٍ - محنتی - جفاکش - مِنْ الْأَيْلِ
 تیز اونٹ - نَاقِلَةٌ أَوْ نَاقِلَةٌ شَامِرٌ
 أَوْ شَامِرَةٌ - اونٹنی یا بکری کے تھنوں
 کا پیٹ سے چپکا ہوا ہونا - لَشْتُهُ
 شَامِرَةٌ - دانت کی جڑ سے چپکا ہوا
 مسوڑھا - ج - شَوَامِرُ -
 الْمَشِيرُ - فَا - تجربہ کار - چست و چالاک -
 کوشش کرنے والا -
 شَمْرَجَ - الثَّوْبُ - کپڑے کو بُرا سینا اور

دور دور ٹانگے بھرنے - فِي الْكَلَامِ - کلام
 میں گڑبڑ کرنا - خَلَطَ لَطَّ - کرنا -
 الشَّمْرُ اجْ - جھوٹا ہوا کلام - ج -
 شَمَارِيحُ - الشَّمَارِيحُ - باطل اور
 جھوٹی باتیں -
 الشَّمْرُجُ - باریک بناوٹ کا کپڑا -
 شَمْرَخَ - العَذَقُ - کھجور یا انگور کے
 گھنوں کو کاٹنا -
 الشَّمْرُ وَخُ وَالشَّمْرَاخُ - کھجور یا انگور کا
 خوشہ - الشَّمْرَاخُ - پھاڑ کی چوٹی -
 بادل کا اوپری حصہ - الشَّمْرُ وَخُ -
 موٹی شاخ پر جھوٹی باریک اگنے والی
 ٹہنی - ج - شَمَارِيحُ -
 الشَّمَارِقُ وَالشَّمَارِيقُ وَالْمُشْرِقُ -
 مِنَ الْبَيْتَابِ - قطع کیا ہوا کپڑا -
 شَمَرْتُ دَنْ شَمْرًا - تَشْمَرُ مِنْهُ -
 مکروہ سمجھ کر نفرت کرنا -
 تَشَمَّرَا - الْوَجْهَ - چہرہ کا سکرنا -
 الشَّمَارُ - الشَّمَارُ - خوف زدہ ہونا -
 کراہیت سے روٹ گئے کھڑے ہونا -
 الشَّيْءُ - مکروہ جاننا - مِنْهُ - منقبض
 ہونا - کراہیت کی وجہ سے نفرت کرنا -
 شَمَسَ دَنْ شَمُوسًا وَشَمَاسًا - باز رہنا -
 انکار کرنا - لہ - دشمنی ظاہر کرنا - بِلَئِي
 کا ارادہ کرنا - الْفَرَسُ - گھوڑے کا
 سرکش ہونا - گھوڑے کا چلنا کہ نہ کسی کو
 سوار ہونے دے نہ زمین کسنے دے -
 نہ ایک جگہ قرار پکڑے - ب صفت -
 (شَمُوسٌ) ج - شَمُسٌ وَشَمُسٌ
 وَشَامِسٌ) ج - شَوَامِسُ -
 شَمَسَ دَنْ (مِنْ) شَمَسًا وَشَمَسَ دَنْ
 شَمَسًا وَشَمَسَ - الْيَوْمُ - دن کا
 دھوپ والا ہونا - صفت (شَامِسٌ وَ
 مُشَمِسٌ) وَشَمَسَ لِي - عداوت کا
 ظاہر ہونا اور اس کو چھپانے سکنا -

شَمَسَ - الْكَافِرُ - کافر کا سورج کی پرستش
 کرنا - الشَّيْءُ - چیز کو دھوپ میں پھیلانا -
 - ع - نَفَرْتُ وَانَا - فَلَانُ - شَمَاسُ
 ہونا -
 شَمَاسَةً - دشمنی کرنا -
 شَمَسَ - دھوپ میں بیٹھنا یا کھڑا ہونا -
 عَلَيْنَا - بجل کرنا -
 الشَّمْسُ - سورج - تصغیر شَمْسَةٍ
 ج - شَمُوسٌ - الشَّمْسُ - ایک قسم کی
 کنگھی - ایک قسم کا ہار -
 الشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمُوسُ - مِنْ
 الْإِيَّامِ - دھوپ والا دن -
 الشَّمُوسُ - سخت دشمنی کرنا - ج - شَمُسٌ وَ
 شَمُسٌ -
 الشَّامِسُ - فَا - مِنَ الْآيَا - دھوپ
 والا دن - مِنَ الْخَيْلِ - سرکش گھوڑا -
 مِنَ الرِّجَالِ - سخت مزاج - ج -
 شَوَامِسُ -
 الشَّمْسِيَّةُ - چھتری -
 الْمُتَشَمِّسُ - قوی - سخت - بخیل -
 شَمَصَ دَنْ شَمَصًا وَشَمَصَ - الدَّوَابُّ
 جانور کو بہت تیز ہانکنا - شَمَصَهُ
 بِالسَّوْطِ - کوڑے سے مارنا - الرَّجُلُ -
 کسی کو اذیت پہنچا کر غصہ کرنا - شَمَصَهُ
 الشَّيْءُ - بے قرار کرنا -
 شَمَصَ (س) شَمَصًا - جلدی جلدی بولنا -
 أَشَمَصَ وَالشَّمَصَ - خوفزدہ ہونا -
 تَشَمَصَ - سکرنا -
 الشَّمَاصُ - نکل جانا - بچ جانا -
 الشَّمَاصُ - جلدی - عجلت -
 الشَّمُوسُ - مِنَ الْخَيْلِ - سرکش گھوڑا -
 شَمَطَ (ض) شَمَطًا - الشَّيْءُ - طانا - الْإِنَاءُ
 بھرنے - الشَّجَرُ - درخت کے پتے
 جھڑنا -
 شَمَطَ (س) شَمَطًا وَشَمَطًا - شَمَطًا وَ





اِسْمَاطُ اِسْمِطَاظًا وَاِسْمَاظُ
اِسْمِطَاظًا۔ سر کے سیاہ سفید بالوں
والا ہونا۔ صفت اِسْمِطَاظ۔ ج۔ شَمُطُ
وَشَمُطَانٌ مَزْنُ شَمُطَاءُ۔ ج۔ شَمُطُ۔
شَمُطْلُہ وَاِسْمُطْلُہ۔ یہ۔ ملا نا۔ خلط
مل کرنا۔
الشَّمِطُ وَالشَّمِطُ وَالشَّمِطُ۔ مصالحہ۔
ج۔ شَمِطَاظُ وَاِسْمَاظُ۔
الشَّمِطُ۔ مخلوط صبح۔
الشَّمِطَاتُ۔ فی الراہ۔ سر میں کچھ
سفیریاں۔
الشَّمِطُوطُ۔ جوار کی بھٹی۔ مِنَ الْخِيْطَانِ
دھاگے کا گولایا گٹا۔
الشَّمِطَاظُ وَالشَّمِطُوطُ وَالشَّمِطِيطُ۔
جماعت۔ گروہ۔ مکہ۔ ج۔ شَمَاظِيطُ۔
کہتے ہیں۔ "جَاوُزْ شَمَاظِيطُ" وہ
علیہ علیہ آئے۔ ثَوْبُ شَمِطَاظُ۔
کٹا ہوا کپڑا۔ الشَّمِطُوطُ۔ لمبا۔
شَمِطْلُہ دَنُضْ شَمِطْلَا۔ روکنا۔ نرم گرم
گفتگو کرنا۔ اکسانا۔ خفیف حرکت دینا۔
۔ الشَّيْءُ۔ ملا نا۔ تَقَوُّوا تَقَوُّوا اِلَيْنَا۔
شَمِعَ دَفْ شَمِعَا وَاِسْمُوعَا۔ کھیننا۔
مذاق کرنا۔ صفت (شَمُوع) اَشْشَامِعُ
اَنْتَ اَمَّ جَاذُ۔ یعنی تم مذاق کر رہے
ہو یا سنجیدگی میں کہہ رہے ہو۔ (شَمُوعَا)
الشَّيْءُ۔ متفق ہونا۔
شَمِعَ۔ الشَّيْءُ۔ کسی شے کو پگھلے ہوئے موم
میں ڈبونا یا اس پر ڈالنا۔ الرَّجُلُ۔
کسی کو کھیل کو یا مذاق پر آمادہ کرنا۔
اَشَمِعَ۔ السِّرَاجُ۔ چراغ کا روشن ہونا۔
الشَّمِعُ وَالشَّمْعُ۔ موم۔ موم بتی۔ واحد
(شَمِعَةٌ وَشَمْعَةٌ)۔ ج۔ شَمِعَاتُ۔
الشَّمَاعُ۔ موم بتی بنانے والا یا بیچنے
والا۔ (الشَّمْعَةُ)۔ موم بتی بنانے کی
لمہ یا اس کے بکنے کی جگہ۔

الشَّمَاعُ وَالشَّمَاعَةُ۔ بتی خوشی۔ مذاق۔
الشَّمُوعُ۔ مِنَ الْبَسَاءِ۔ خوش طبع۔ مذاق
کرنے والی عورت۔
الشَّمْعَدَانُ۔ چراغدان۔ ج۔ شَمَاعَدُو
شَمْعَدَانَا۔ یہ فارسی کا کلمہ ہے
عربی میں اس کے ہم معنی مَاثِلَتُ
ہے۔ وَمِنْكَ شَمُوعُ۔ غنبر ملا ہوا
مشک۔
اِسْمَعَطَ اِسْمِطَعَاظًا غصہ سے بھر جانا۔
الْقَوْمُ فِي الطَّلَبِ۔ تلاش میں جلدی
کرنا اور پھیل جانا۔ الِابِلُ۔ اِد
الْخَيْلُ۔ اونٹوں یا گھوڑوں کا بکھر جانا۔
شَمَعَلُ وَتَشَمَعَلُ وَاِسْمَعَلُ۔ متفرق
ہونا۔ پھیل جانا۔ اِسْمَعَلَتِ الْخَوْبُ
لُطَائِي كَا بَطْرُكُنَا۔ الْغَارَةُ۔ لوٹ
پھیل جانا۔ الِابِلُ۔ اونٹوں کا خوشی
میں آکر ادھر ادھر پھیل جانا۔
شَمِيقُ دَسْ شَمِيقًا پگل کی طرح خوش ہونا۔
تَشَمَّقُ خوشی ہونا۔ الشَّيْءُ۔ گھس جانا۔
الشَّمَاظَةُ۔ جنون۔ خوشی چڑھتی۔
الشَّمِيقُ وَالشَّمِيقُ۔ لمبا۔ شادمان۔
شَمَلَتُ دَنُ شَمُولًا۔ الرَّيْحُ۔ شمالی
ہوا چلنا۔ (شَمَلًا) الشَّيْءُ۔ شمالی
ہوا کے سامنے کرنا۔ یہ۔ بائیں جانب
لینا۔ النُّخْلَةُ۔ بکی کھجوروں کو
چن لینا۔
شَمَلُ دَنُ شَمَلًا۔ الشَّاقَةُ۔ بکری
کے تھنوں پر پھیلا چڑھانا۔
شَمِلَتُ دَسْ شَمِلًا وَشَمُولًا۔ چادر
میں لپیٹنا۔
شَمِلُ دَسْ شَمَلًا وَشَمِلُ شَمَلًا۔
الْقَوْمُ شمالی ہوا سے تکلیف پانا۔
شَمَلُ دَنُ وَشَمِلُ دَسْ شَمَلًا وَ
شَمَلًا وَشَمُولًا۔ الْأُمُ الْقَوْمُ۔
سب کو شامل ہونا۔ عام ہونا۔

شَمَلَتُ تَشَمَلًا۔ چادر میں لپیٹنا۔ شَمَلُ
الرَّجُلُ۔ جلدی کرنا۔ دائیں ہاتھ سے
پکڑنا۔
اَشَمَلُ۔ الْقَوْمُ۔ باد شمالی میں داخل ہونا۔
۔ الرَّيْحُ۔ شمالی ہوا چلنا۔ الشَّاقَةُ
بکری کے تھنوں پر پھیلا چڑھانا۔ الْقَوْمُ
تَحِيًّا أَوْ شَرًّا۔ بھلائی یا برائی عام کرنا۔
۔ الرَّجُلُ۔ بڑی چادر والا ہونا۔
اَشَمَلَتُ۔ چادر دینا۔ التَّحَدُّ۔
بکی بکی کھجوریں چننا۔
تَشَمَلُ۔ تَشَمَلًا۔ بِالشَّمَلَةِ۔ چادر
میں لپیٹنا۔
اَشَمَلُ۔ جلدی کرنا۔ فِي الْحَاجَةِ۔ آمادہ
ہونا۔ ارادہ کرنا۔ بِالْشَّوْبِ۔ کپڑے میں
پورا لپیٹنا۔ الْأُمُ عَلَيَّہ۔ گھیرنا۔
احاطہ کرنا۔ عَلَى فُلَانٍ۔ بچانا۔
اَلشَّمَلُ۔ جلدی کرنا۔
الشَّمَلُ۔ مَص۔ شمالی ہوا۔ مجتمع امر۔ متفرق
امر (مَصَدُّ) جَمَعَ اللَّهُ شَمَلَهُمْ۔
اللَّهُ تَعَالَى اِنْ كَيْفَ بَكْرٍ ہونے کا مومن
کو جمع کر دے۔ "فَوَقَّ اللَّهُ شَمَلَهُمْ
اللَّهُ تَعَالَى اِنْ كَيْفَ جَمِيعٌ كَوْتَرِ بَرِ كَرَمِ
(سُورَةُ الشَّمَلِ) کھجوروں کا گچھا۔
الشَّمَلُ۔ مَص۔ باد شمالی۔ پناہ۔ تَقَوُّوا
بَارِشْ یا کھجور یا تَقَوُّوا لوگ۔ ج۔
اَشَمَالُ۔
الشَّمَلَةُ۔ چوڑی چادر جو جسم کو ڈھانک لے۔
ج۔ شَمَلَاتُ۔ اُمُّ شَمَلَةٍ۔ دنیا۔
شَرَابُ۔ سورج۔
الشَّمَلَةُ۔ لیٹنے کی میت۔
الشَّمَالُ وَالشَّمَالُ وَالشَّمَالُ وَ
الشَّمَالُ وَالشَّمِيلُ وَالشَّمُولُ وَ
الشَّمُولُ وَالشَّمِيلُ۔ باد شمالی۔ ج۔
شَمَالَاتُ۔ الشَّمَالُ۔ بکری کے تھنوں
پر چڑھانے کا پھیلا۔ وَالشَّمَالُ۔ ج۔

أَشْمَلُ وَشَمْلُ وَشِمَالُ (بلفظ الواحد)
 وَشَمَائِلُ - بایاں - الشِّمَالُ - اتر -
 بدبختی - بکری کے تھن کا داغ - کھیتی
 کاٹنے والے کے ہاتھ میں کھیتی کا مٹھا -
 طیرِ شِمَالُ - بدشگونی کا پرندہ -
 نَاقَةُ شِمَالُ - تیز رفتار اونٹنی -
 الشِّمَالُ - ج - شَمَائِلُ - طبیعت -
 عادت - سیرت - کہتے ہیں - "لَيْسَ مِنْ
 شِمَالِي أَنْ أَعْمَلَ بِشِمَالِي" میری
 عادت نہیں کہ اٹھے ہاتھ سے کام کروں -
 الشِّمِيلُ - طبیعت - ج - شَمَائِلُ -
 الشِّمْلُ - چادر میں لپٹا ہوا -
 الشَّمُولُ - شراب یا سرد شراب -
 الشِّمْلُ - تھوڑی کھجوروں کا گچھا -
 الشِّمَالُ - اُٹا - بایاں -
 الشَّمَاكَةُ - وہ جگہ جس میں شکاری شکار
 سے چھپتا ہے - ج - شَمَائِلُ -
 الشَّمْلُ - چھوٹی تلوار -
 المَشْمُولُ - منع - پسندیدہ اخلاق والا -
 المَشْمُولَةُ - شراب - کیلئے مَشْمُولَةٌ -
 ٹھنڈی رات - أَخْلَاقٌ مَشْمُولَةٌ -
 بُرے اخلاق -
 شَمْلَلُ - الرجل - جلدی کرنا - چُست
 ہونا - کھجوریں چننا -
 الشَّمْلَالُ وَالشَّمْلِيلُ - تیز چلتے والی
 اونٹنی -
 الشَّمْلُولُ - چست کھجوروں یا بارش کی تھوڑی
 مقدار - آدمیوں کی تھوڑی مقدار -
 ج - شَمَائِلُ -
 الشَّمَالِيلُ - شاخیں جن کی پوٹیاں پر اگندہ
 ہوں - ثَوْبٌ شَمَالِيلُ - پٹا پرانا کپڑا -
 ذَهَبُ الشَّمَالِيلِ - وہ متفرق چلے گئے -
 شَمَلَقٌ - امرأةٌ شَمَلَقٌ - بدخلق عورت -
 الشَّمْنَدَارُ وَالشَّمْنَدُورُ - چمندر -
 شَمْمَهْدٌ - السکین - چھری تیز کرنا -

الحديد - لوہے کو پتلا کرنا -
 الشَّمْمَهْدٌ - تیز چھری -
 شَمَّا يَشْمُو شَمُوًا - الرجل - آدمی کی
 شان بلند ہونا -
 الشَّمَا - موم -
 شَمْنُ رَنْ شَمْنَا - الماءُ عَلَى الشَّرَابِ -
 شراب پر پانی چھڑکنا - (وَأَشْنُ) -
 الْفَرْكَةُ عَلَيْهِمْ - چاروں طرف سے
 لوٹ ڈالنا -
 شَمْنَتُ (مَنْ) وَأَشْنَتُ وَشَمْنَتُ -
 الْقُوَّةُ - مشک پرانی اور خشک ہوگئی -
 تَشْنَنُ وَتَشَنَاتُ - الجِلْدُ - کھال کا
 سوکھ جانا - سَکُونًا - جِلْدُ الْإِنْسَانِ
 انسان کی جلد پر بڑھاپے کی وجہ سے
 چھریاں پڑنا - (وَأَشْنَتُ) السِّقَاءُ
 مشک پرانی ہونا - (تَشَنَاتُ الشَّيْثَانِ
 دو چیزوں کا باہم ملنا -
 اسْتَشْنَتُ - دہلا دلا کر ہونا - إِلَى اللَّبَنِ
 دودھ کی خواہش رکھنا -
 الشَّنْ - م - ج - شَنَاتٌ وَأَشْنَاتٌ وَ
 الشَّنَّةُ - چھوٹی پرانی مشک -
 الشَّنُونُ - موٹا - دہلا دھند بھوکا -
 الشَّنِينُ - دودھ جس پر پانی ڈالا گیا ہو -
 الشَّنَاتُ - ٹھنڈا پانی - پانی برسانے والا
 بادل - متفرق پانی -
 الشَّنَاتَةُ - مشک یا درخت سے ٹپکنے
 والا پانی -
 الْأَشْنَانُ - ایک قسم کی گھاس -
 شَعَارُونُ وَشَنِجٌ رَسٌ شَنَاءٌ وَشَنَاءٌ
 وَشَنَاءٌ وَشَنَاءَةٌ وَشَنَاءًا وَ
 شَنَاءًا وَمَشْنَاءٌ وَمَشْنَاءَةٌ وَ
 مَشْنُوَةٌ - الرجل - بغض رکھنا -
 دشمنی کرنا نفرت کرنا صفت فاعلی (شَنِجٌ)
 ج - شَنَاءٌ - مؤنث شَنَائِيَّةٌ - ج -
 شَوَانِي - صفت مفعولی (مَشْنُوَةٌ)

شَنِجٌ رَسٌ شَنَاءَةٌ - انشئی - نکالنا -
 حَقَّقَهُ وَبَحَقَّقَهُ - حق کا اقرار کر کے
 دے دینا -
 شَنِجٌ - باوجود جیل ہونے کے مکروہ ہونا -
 تَشَنَاءٌ - القَوْمُ - ایک دوسرے سے
 بغض و دشمنی رکھنا -
 الشَّنَاءَةُ - عداوت و دشمنی -
 الشَّوَانِي - مؤنث الشَّائِنَةُ - شَوَانِي
 المال - فیاضی سے دیا ہوا مال -
 الشَّنَانُ - دشمنی کرنے والا - بغض رکھنے والا -
 بُرَّاسِجْنَةُ - مؤنث د شَنَاءَةٌ
 (دشنا ج) -
 المَشْنَاءُ - وہ شخص جس سے لوگ بغض رکھیں
 ایسا حرکتیں کرنے والا جن کی وجہ سے
 لوگ اس سے دشمنی رکھیں -
 المَشْنَاءُ - قبیح - بد شکل - (واحد جمع مذکر
 مؤنث سب یکساں) لوگوں سے دشمنی
 رکھنے والا -
 شَنِيبٌ رَسٌ شَنِيبٌ - اليوم - دن کا سرد
 ہونا - صفت (شَنِيبٌ وَشَنِيبٌ) اسم
 (الشَّنْبَةُ) - الرجل - سفید خوبصورت
 دانتوں والا ہونا - صفت (أَشْنَبٌ وَ
 شَنِيبٌ وَشَنِيبٌ وَشَنِيبٌ) -
 المَشَانِبُ - خوشبودار منہ -
 شَنِيبَتُ - الصَّوْحَى قَلْبًا - محبت کا کسی کے
 دل میں گھر کر جانا -
 الشَّنْبَتُ وَالشَّنَابَتُ - شیر - موٹا -
 المَشْنَتَةُ - چمڑے کا پتلا - بیگ -
 شَنْتَرٌ - ثَدِيَّةٌ - کپڑا بھارنا -
 الشَّنْشَرُ - اٹکی - دو انگلیوں کے درمیان کا
 فاصلہ - ج - شَنَاتِيَّةٌ -
 شَنِجٌ رَسٌ شَنِجٌ وَأَشَنِجٌ وَتَشَنِجٌ -
 (وَأَشَنِجٌ) - الجِلْدُ - گرمی یا سردی
 سے کھال کا سکرنا - ایسی کھال کو
 (شَنِجٌ) اور ایسی کھال والے کو

شَنْجِجٌ وَاشْنَجٌ کہتے ہیں۔

شَنْجَلٌ - سیکڑنا۔

الشَنْج - مم۔ اونٹ۔

شَنْجٌ - عَلِيٌّ - برا بھلا کہنا۔

الشَّنَاحُ وَالشَّنَاجِي وَالشَّنَاجِي وَالشَّنَاجِيَّةُ
موٹا اور لمبے قد کا اونٹ۔

شَنْجٌ - النَّحْلُ - درخت خرما کے کانٹے
صاف کرنا۔

الشَّنَاحُ - پہاڑ کی نوک۔

الشَّنَاحُ وَالشَّنُوبُ وَالشَّنُوبَةُ

پہاڑ کی چوٹی - ج - شَنَّاحِيْبٌ -

الشَّنُوبُ - شانے کا بالائی حصہ۔

پیٹھ کا منکا۔

الشَّنُوبُ - مضبوط، لمبا اور گھٹے بدن کا۔

شیر مکان کی تعمیر یا سفر سے واپسی کی

خوشی میں دعوت۔

شَنْوٌ - عَلِيٌّ - کسی پر عیب لگانا۔ الزام

لگانا کسی کی تذلیل کرنا۔

الشَّنَارُ - عار۔ بے عزتی۔

الشَّنِيرُ وَالشَّنِيرَةُ - بدخلق، برا عیب دار

اور شرابی۔

شَنْوَرُ الشُّوْنِيْرِ وَالشُّوْنِيْرِ - کلو بنی۔

الشَّنَشْنَةُ - عادت، طبیعت، گوشت کا

ٹکڑا - ج - شَنَّاشِنْقٌ -

الشَّنَشْنَةُ - نئے کپڑے یا غذا کی کھڑکھڑاہٹ

شَنْصُ دَن وَشَنْصُ دَس، شَنْوُصًا -

بہ۔ چٹنا۔ فوس (شَنَّا ص و

شَنَّا صِي وَشَنَّا صِي وَشَنَّا صِيَّةٌ

لمبا مضبوط عمدہ گھوڑا۔

الشَّنَطُ - پکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے۔

المُشْنَطُ - بھونا ہوا گوشت۔

شَنْطُ (شَنَاط) الجبل - پہاڑ کی چوٹی۔

الشَّنْطَبُ - دراز قامت، خوبصورت۔

شَنْطَرٌ بِهْمٌ - گالی دینا۔

الشَّنْطِيرُ وَالشَّنْطِيرَةُ وَالشَّنْطُوسَةُ

بدخلق، پہاڑ سے پھٹ کر گرنے والی

چٹان۔ شَنْطِيرٌ کی جمع شَنَّاطِيرٌ۔

شَنَّاطِيرُ الْجَبَل - پہاڑ کے اطراف

و کنارے۔

شَنْطِي - بہ - مکروہ بات سنانا۔

شَنْطُوةٌ - الْجَبَل - پہاڑ کی چوٹی۔ پہاڑ کا

کنارہ - ج - شَنَّاطٌ -

شَنْعَةٌ دَن، شَنْعًا قِيح جانا گالی دینا۔

بے عزت کرنا۔

شَنْعٌ دَس، شَنْعًا - بہ - قِيح سمجھنا۔

شَنْعٌ - دَن، شَنَّاعَةٌ وَشَنَّاعٌ وَشَنَّاعٌ

شَنْوَعًا قِيح ہونا - صفت (شَنِيعٌ

ج - شَنْعٌ وَشَنِيعٌ وَاشْنَعٌ)

شَنْعٌ - الرجل - بہت برا بھلا کہنا۔

عليه الامر - قِيح ٹھمرانا۔

الرجل - تیار ہونا۔ آمادہ ہونا۔ د - و

اشْنَعٌ (البعير) - اونٹ کا دوڑنے

میں کوشش کرنا۔

تَشْنَعٌ - دوڑنے میں کوشش کرنا۔ لِلْأَمْرِ

کام کے لیے تیار ہونا۔ السَّلَامَةُ

بہتیار پہننا۔ الغارَةُ - عام لوٹ

ڈالنا۔ القوم - اختلاف رائے کے

سبب قوم کی حالت کا خراب ہونا۔

الرجل - برے کام کا ارادہ کرنا۔

الفرس - گھوڑے پر سوار ہونا۔ چڑھنا۔

الشَّنَبُ - کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

اسْتَشْنَعَهُ - قِيح و مکروہ سمجھنا۔

الشَّنَعَةُ وَالشَّنَاعَةُ وَالشَّنُوعُ - قباحت

المُشْنَعُ - قِيح۔ بے بنیاد خبریں اڑانے والا۔

المُشْنُوعُ - شرارت و بدی میں مشہور۔

الشَّنُوءُ وَالشَّنَاعُف - پہاڑ کی چوٹی۔

اوپر پہاڑ۔ لمبا۔ کمزور آدمی۔

الشَّنَعْفَةُ - لمبائی۔

شَنْفٌ دَن ص، شَنْفًا - الیہ - اعراض یا

تعجب کی نظر سے دیکھنا۔

شَنْفٌ دَس، شَنْفًا - قُلَانٌ وَفُلَانٌ بعض

رکھنا، نفرت کرنا۔ بہ - تار جانا۔ کہ

سمجھ جانا۔ تار جانا۔

شَنْفٌ - الکلام - کلام کو مزین کرنا۔ لَئِيْهِ

کنکھوں سے دیکھنا۔ (وَأَشْنَفٌ) -

الجارية - لڑکی کے لیے بالیاں بنانا۔

ایرن بنانا۔

تَشْنَفَتِ - الجارية - لڑکی کا بالیاں پہننا۔

الشَّائِف - نما - اعراض کرنے والا۔

الشَّنْفُ - مص - کان کی بالی یا ایرن - ج -

شَنْوُفٌ وَاشْنَافٌ -

شَنْقٌ دَن ص، شَنْقًا - البعير - سوار کا

اونٹ کی نیل کو کھینچنا۔ القربة -

مشک کے تسمہ باندھنا۔ دَاسِلٌ لَدَا بَةِ

جانور کے سر کو کسی درخت یا اونچی کھوئی

سے باندھنا۔ اور اسی سے الشَّنَقُ

ہے۔ جس کے معنی مجرم کو پھانسی دینے

کے ہیں۔ الشَّيْءُ - لٹکانا۔ الحليَّةُ -

شہد کے چھتے میں کڑی ڈالنا۔

شَنْقٌ دَن ص، شَنْقًا وَشَنْقٌ دَس، شَنْقًا -

کسی سے محبت کرنا۔ دل لگانا۔

شَنْقٌ - الشَّيْءُ - کاٹنا، کٹوے کرنا۔ کڑی کا

ٹکڑا چھتے میں ڈالنا۔

أَشْنَقٌ - البعير والقربة بمعنى شَنْقٌ

البعير والقربة - البعير - اونٹ

کا اپنا سراٹھانا۔ عَلَيَّ فُلَانٍ - کسی

پر دست درازی کرنا۔ الرجل - کسی

کا خون بہالینا یا کسی پر خون بہا واجب

ہونا۔ الشَّيْءُ - لٹکانا۔ غَمَمَةٌ - الی

غَمَمَةٌ زَبْدٌ - کسی کی بکریوں کے ساتھ

اپنی بکریاں ملا کر بڑھانا۔ البسَدَا

إِلَى الْعَنْقِ - ہاتھ کو گلے میں ڈال کر

طوق بنانا۔

شَانَقَهُ مُشَانَقَةً وَشَنَاقًا - اپنے مال کو

کسی دوسرے کے مال میں ملانا۔



تَشَاتَفَا۔ اپنے مال کو دوسرے کے مال کے ساتھ ملانا۔
 الشَّنَقُ۔ مم۔ خون بہا۔ رسی سر کی لمبائی۔ جانور کے بوجھ کے ایک طرف کا حصہ۔
 الشَّنَاقُ۔ مم۔ تسمہ یا ڈوری جس سے منک کا منہ باندھا جائے۔ تانت۔ سر کی لمبائی۔ بروہ ڈوری جس سے کوئی چیز لٹکائی جائے۔ اونٹ کے سر کو کھینچنے کی ڈوری۔ وہ رسی جس سے ہاتھ گردن سے باندھے جاتے ہیں۔ شَنَقٌ وَأَشْنَقَةٌ۔ الْقَلْبُ الشَّنَقُ۔
 ج۔ اَشْنَقُ۔ فَرَسٌ اَشْنَقُ۔ لیے سر کا گھوڑا۔ مَوْنَتٌ وَشَنْقَاءُ وَشَنْقَاءٌ ع۔
 الشَّنِيقُ۔ پچانسی دیا ہوا۔ لکڑی جو شہد کے چھتے میں ڈالی جاتی ہے۔ منہ بولا بیٹا۔
 الشَّنِيقُ۔ مغرور۔ خود پسند۔
 اِلْشَنَاقُ۔ ہر چیز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا۔
 شَنَمَ دَن۔ شَنَمًا۔ الجِلْدُ۔ چمڑہ پھیلنا۔
 مَاءٌ شَنَمٌ۔ سرو پانی۔
 الشَّنَمُ۔ کن کٹے۔
 شَنَهَقَ يَأْشَهُقُ۔ گرہے کا ریگنا۔
 الشَّائِبَةُ۔ بڑا جنگی جہاز۔ ج۔ شَوَانٍ شَهَبٌ دَس) وَتَهَبٌ دَك) شَهَبًا۔
 سیاہی مائل سفید رنگ ہونا۔ صفت دشاہب و اَشْهَب) عَامٌ اَشْهَبٌ قَطُّ کا سال۔ خشک سال۔ يَوْمٌ اَشْهَبٌ۔ ٹھنڈی ہوا اور پالے والا دن۔ جَيْشٌ اَشْهَبٌ۔ مضبوط فوج۔ ج۔ شَهْبٌ۔
 شَهَبَةٌ دَف) شَهَبًا وَشَهَبًا۔ الْحَوُّ۔ گرمی کا کسی کو مجلس دینا۔
 اَشْهَبٌ۔ الْعَامُ الْقَوْمُ۔ قوم کے پاؤں کو برباد کر دینا۔ ناپید کر دینا۔

اَشْهَبٌ وَاشْهَابٌ وَاشْتَهَبَ۔ سیاہی مائل سفید رنگ والا ہونا۔
 الذَّوْعُ۔ کھیتی کا خشک اور زرد ہونا مگر بیج میں کچھ سبزی رہ جانا۔
 اَشْهَبٌ۔ مم۔ برف سے ڈھکا ہوا پہاڑ۔
 الشَّهَبُ وَالشَّهْبَةُ۔ سیاہی مائل سفید رنگ۔
 اِلْشَهَابُ۔ آگ کا شعلہ۔ ٹوٹنے والا ستارہ ستارہ۔ نیزہ کا پھل۔ ج۔ شَهْبٌ وَشُهَبَاتٌ وَشُهَبَانٌ وَاشْتَهَبُ کہتے ہیں۔ "فَلَانٌ شَهَابٌ حَرْبٍ" فلاں جنگ جو اور دلیر ہے۔
 اَلْاَشْهَبُ۔ شیر۔ مشکل کام۔
 شَهَبَاءُ۔ مَوْنَتٌ اَشْهَبٌ۔ حلب شہر کا لقب۔ مِنْ اَلْاَشْهَابِ۔ بہت ہتھیاروں والا بڑا لشکر۔ سَنَدٌ شَهَبَاءُ۔ وہ سال جس میں نہ سبز نہ بارش یا برف والا سال۔
 اَلشَّهَابُ وَالشَّهْبَةُ۔ وہ دودھ جس میں تین حصے پانی ہو۔
 اَلْاَشْهَبُ۔ مندر خمی کی اولاد کا خطاب۔
 شَهَدَ دَس) شَهْوَدًا۔ المجلس۔ مجلس میں حاضر ہونا۔ الشَّيْءُ۔ معائنہ کرنا۔ اطلاع پانا۔ الْجُمُعَةُ۔ جمع پانا۔
 عَلَيَّ كَذَا۔ گواہی دینا۔ صفت (شَهِدٌ) ج۔ شَهْوَدٌ وَشَهْدٌ۔
 شَهَدَ دَس) وَشَهْدٌ دَك) شَهَادَةٌ۔ عِنْدَ الْحَاكِمِ يَفْلَانِ اَوْ عَلَيَّ فَلَانٍ۔ گواہی دینا۔ صفت (شَهِدٌ) ج۔ شَهْدٌ وَشَهْوَدٌ وَاشْهَادٌ۔
 شَهَدَ اللّٰهُ۔ اللّٰهُ واقف ہے اللّٰہ کو علم ہے، اللّٰہ نے قبول کیا۔ شَهِدَ يَكْذًا۔ قسم کھانا۔
 شَاهَدَةٌ۔ مُشَاهَدَةٌ۔ معائنہ کرنا۔ دیکھنا۔
 اَشْهَدَہ۔ حاضر کرنا۔ اَشْهَدَ فَلَانًا

عَلَيَّ كَذَا۔ کسی کو گواہ بنانا۔ اَشْتَشْهَدُ گواہی دینے کے لیے کہنا۔ اَمْتَشْهَدُ بلہ۔ گواہی میں مدد لینا۔
 اَشْهَدُ وَاشْتَشْهَدُ۔ اللّٰہ کی راہ میں شہید ہونا۔
 تَشْهَدُ۔ گواہی طلب کرنا۔ الْمُسْلِمُ۔ النِّمَاتِ پڑھنا۔
 الشُّهْدُ وَالشَّهْدُ۔ وہ شہد جو موم سے صاف نہ کیا گیا ہو۔ ج۔ شِجْهَاد۔
 الشَّهَادَةُ۔ مم۔ گواہی۔ یقینی خبر۔ قسم۔ اللّٰہ کی راہ میں موت۔ عالم ظاہر و عالم غیب کا مقابل،
 الشَّاهِدُ۔ فا۔ زبان۔ اور اسی سے ہے عرب کا قول "مَا لَكَ رَوَاءُ وَلَا شَاهِدٌ" نہ اس کو خوش منظری نصیب ہے نہ خوش بیانی۔ قدام۔ ستارہ۔ مغرب کی نماز۔ نحو وغیرہ کے قاعدے کے ثبوت میں ماہرین عربیت کا کلام۔
 الشَّاهِدَةُ۔ زمین۔ ج۔ شَاهِدَاتٌ وَشَوَاهِدُ۔
 الشَّهِيدُ وَالشَّهيدُ۔ حاضر۔ گواہی میں امین جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔
 اللّٰہ کے راستے میں مارا جانے والا۔ اسم (الشَّهَادَةُ) ج۔ شَهْدَاءُ۔ مَوْنَتٌ شَهِيدَةٌ۔
 اَلْمَشْهَدُ۔ لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔ لوگوں کے اجتماع کی جگہ۔ شہید کے قتل ہونے کی جگہ۔ ج۔ مَشَاهِدُ۔
 اَلْمَشْهَدَةُ وَاَلْمَشْهَدَةُ۔ لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔
 اَلْمَشْهَدُ۔ شہید۔
 اَلْمُشْهَدُ۔ فا۔ امْرَأَةٌ مُشْهَدَةٌ۔ وہ عورت جس کا خاوند موجود ہو۔ اس کا مقابل امْرَأَةٌ مُغِيبَةٌ۔ وہ عورت جس کا خاوند غائب ہو۔



الشَّهْوُودُ - مفعول جمع کا دن قیامت کا دن۔
شَهْرَةٌ (ف) شَهْرٌ وشَهْرَةٌ - یگانہ
مشہور کرنا۔ شَهْرٌ وشَهْرٌ -
السَّيْفُ - تلوار سونت کر بلند کرنا۔
شَهْرٌ لَنَا - کسی کو رسوا کرنا۔

أَشْهَرُ - ایک مہینہ گزرا۔ أَشْهَرْنَا فِي
هَذَا الْمَكَانِ - ہم اس جگہ ایک مہینہ
مقیم رہے۔ أَشْهَرَتِ الْمَرْأَةُ
عورت کا ولادت کے مہینہ میں داخل
ہونا۔ الْأَمْرُ - کسی امر کو ظاہر کرنا اور
مشہور کرنا۔

شَاهِرَةٌ شَاهَرًا وَمُشَاهَرَةٌ - مہینہ کے
لیے نوکر رکھنا۔
أَشْتَهَرُ - الْأَمْرُ - کسی امر کا مشہور ہونا۔
الْأَمْرُ - کسی امر کو مشہور کرنا۔ بِأَ
لِفَضْلِ - کسی کا فضیلت میں شہرت
حاصل کرنا۔

الشَّهْرُ - مہ - ایک ماہ۔ جاندہ۔ ہلال۔ دانا۔
جہ۔ أَشْهَرُ وشَهْوَسُ۔

الشَّهْرَةُ - شہرت۔ برائی میں شہرت۔ زسوائے۔
الشَّهِيرُ - مشہور۔ نامور۔ مَوْنُثٌ - شہیرہ
الْمَشْهُورُ - مفعول مشہور۔ مَوْنُثٌ - مَشْهُورَةٌ
شَهَقَ (ف) شَهَقَ (د) شَهَقَ (د) شَهَقًا
تَشْهَقًا - الجِہاسُ - گدھے کا
ریگنا۔ (د) شَهَقًا وتَشْهَقًا
وَشْهَقًا، الرجل - کسی کا رونے
میں سکی لینا غرغروالا ہونا۔ (د) شَهْوَقًا
الجبل وغيره - پہاڑ وغیرہ کا بلند ہونا
صفت (شاق) کہتے ہیں شہقت
عینی عَلَيَّہِ - یعنی میری نظر اس پر
گرگرائی۔

تَشَهَّقَ - علیہ کسی پر نظر جمادینا۔
الشَّهْقَةُ - سبکی غرغرو کی آواز۔ چیخ۔
الشَّاهِقُ - فابلند اونچی زیادہ غضبناک۔
التَّشْهَاقُ - مہ - دُصْحُكُ تَشْهَاقُ

نور کا ہنسی۔
شَهْلَسَ (د) شَهْلًا وشَهْلًا شَهْلًا
آنکھ میں سیاہی مائل سرخی ہونا۔ صفت۔
(أَشْهَلُ) مَوْنُثٌ شَهْلَاءُ - جہ۔
شَهْلُ۔

شَاهِلَةٌ مُشَاهِلَةٌ - گالی گلوچ کرنا۔
تَشَهَّلَ - چہرہ کی رونق کا جاتا رہنا۔
الشَّهْلُ والشَّهْلَةُ - سیاہ زردی
مائل رنگ۔

الشَّهْلَاءُ - حاجت۔
الشَّهْلَةُ - بڑھیا۔

شَهْرَدَن، شَهْمًا وشَهْوَمًا -
الفرس۔ ڈانٹا۔ للکارنا۔ الرجل
گھبرا دینا۔ ڈرانا۔

شَهْمَدَكُ قَهْمَامَةٌ وشَهْوَمَةٌ -
تیز فہم ہونا۔ ذکی ہونا۔

الشَّهْمُ - ذکی القلب۔ وہ سردار جس کا حکم
نافذ ہو۔ جہ۔ شَهْمًا۔ چالاک گھوڑا۔
جہ۔ شَهْوَمٌ۔

الشَّيْهَمُ - زریبی۔ جہ۔ شَيَاهِمُ۔
الشَّيْهَمَةُ - بڑھیا۔

الْمَشْهُومُ - تیز خاطر۔ خوفزدہ۔

الشَّاهِيْنُ - شاہین پرندہ۔ جہ۔ شَوَاهِيْنُ
وَشَيَاهِيْنُ - ترازو کا عمو۔

شَهَا يَشْهَوُ وَيَشْهِي يَشْهِي شَهْوَةً
وَأَشْتَهِي - الشَّيْءُ - کسی چیز کو پسند
کرنا۔ بہت چاہنا۔

شَهْوَ يَشْهَوُ - الطَّعَامُ - کھانے کا
لنیز ہونا۔

شَهَقَى - الرجل - خواہش کرنے پر اکسانا۔
- عَلَيَّہِ كَذَا - بار بار خواہش کرنا۔

هَذَا الشَّيْءُ يَشْهِي الطَّعَامَ - یہ چیز
کھانے کی اشتہا پیدا کرتی ہے۔

شَاهَا جہ - مشابہت رکھنا۔
أَشْهَاهُ - خواہش پوری کرنا۔ نظر لگانا۔

تَشَهَّى - الشَّيْءُ - کسی شے کو پسند کرنا۔ چاہنا۔
عَلَيْهِ كَذَا - بار بار خواہش پیش کرنا۔
الشَّهْوَةُ - مہ - خواہش، بھوک، شہوت۔ حرص۔
رغبت۔ جہ۔ شَهْوَاتٌ وشَهْوَى۔

الشَّهَاءُ - بہت خواہش کرنے والا۔
الشَّهِي - چاہنے والا۔ خواہشمند۔ دَامَشْهَى
مرغوب۔ لذیذ۔ شَيْءٌ شَهِيٌّ - لذیذ چیز۔
الشَّهْوَانُ - مَوْنُثٌ - شَهْوَى - جہ۔ شَهَادَى
الشَّهَوَانِي - خواہش مند۔

شَاهِي - الْبَحِيرُ - تیز نظر - الشَّاهِيَّةُ -
خواہش۔

شَابٌ يَشْوِبُ شَوْبًا وشَيْبًا - الشَّيْءُ -
طانا۔ الرجل - خیانت کرنا۔ دھوکا
دینا۔ وشَوْبٌ شَوْبِيًّا، عَنَهُ -
بلکے سے بٹانا۔

أَنْشَابٌ أَنْشَابًا وَأَنْشَابٌ لَأَشْتِيَابًا -
طانا۔ مخلوط ہونا۔

الشَّوْبُ - مہ - وہ چیز جو دوسری چیز سے ملائی
جائے۔ گندھے ہوئے کٹے کا پٹا۔ شہد۔

الشَّوْبَةُ - اسم مرقہ - دھوکا۔
الشَّائِبَةُ - الشَّائِبُ - کاموٹ۔

شَوَائِبُ کا واحد - یعنی عیوب۔

الشَّيَاب - مہ - ملاوٹ۔ لیکلے (الشَّيْبَاءُ)
ماہ کی آخری رات۔

الْمَشْوَبُ وَالْمَشْيَبُ - ملا ہوا۔ مخلوط۔
الْمُشَاوَبُ - بول کا غلاف۔ جہ۔ مَشَاوِبُ
شَوْحٌ - الشَّيْءُ - نہ پہچانا۔ انکار کرنا۔

الشَّوْحَةُ - چیل۔ دیوار کا درخت۔ جہ۔ مَشْوَحٌ
الشَّوْحُطُ - وہ درخت جس سے کمائیں بناتے

ہیں۔ واحد (الشَّوْحُطَةُ)

شَوَذَ - الشَّمْسُ - ڈوبنے کے لیے سورج
کا بھگنا۔ شَوَذَ السَّمَاءُ الشَّمْسُ -

بادل کا سورج پر بچھا جانا سورج کو ڈھانک
لینا۔ ک - کسی کے عامہ باندھنا۔
تَشَوَذَ وَأَشْتَادَ - عامہ باندھنا۔ گھڑی باندھنا۔

الْأَشَاوِرُ مَخْلُوقٌ.

الْمَشَاوِدُ وَالْمَشَاوِدُ: پگڑی، عامر، بادشاہ۔

سردار۔ ج۔ مَشَاوِدٌ وَمَشَاوِدٌ۔

نَشَارٌ لِيَشُورَ شَوْدًا وَشِيَاءًا وَيَشِيَارَةً وَ

مَشَارًا وَمَشَارَةً۔ الْعَسَلُ۔ شہد

بچتے سے نکالنا صفت مفعول (مَشُور)

د۔ شُورًا وَيُشَوَّرُ۔ الدَّابَّةُ

جانور کو سدھانا۔ آزمائش کے لیے

سوار ہونا۔ خریدار کو بتانے کے لیے

سوار ہونا۔ نشارت الابل۔ موٹے

اور خوبصورت ہونا۔

شُور۔ الدَّابَّةُ۔ جانور کو سدھانا۔ بہ

شرمندہ کرنا۔ اَلْيَدُ۔ اشارہ کرنا۔

النَّارُ وَالنَّارُ۔ آگ کو شعلہ زن کرنا۔

أَنشَارَ۔ الْعَسَلُ وَالنَّارُ۔ بمعنی

نشار۔ النَّارُ وَالنَّارُ۔ آگ کو

شعلہ زن کرنا۔ بہ۔ واقف کرانا،

تعارف کرانا۔ أَنشَارَ الْيَدِ۔ اشارہ

ببیدار کرنا۔ اشارہ کرنا۔ علیہ۔ حکم

کرنا۔ نصیحت کرنا۔ ٹھیک راہ بتانا۔

فَلَانًا عَسَلًا شَهْدًا لِنَفْسِي مَدُونًا۔

أَشُورَ اِشْوَارًا۔ النَّارُ وَالنَّارُ۔ آگ

کو بلند کرنا۔

نَشَاوَرَةً۔ فِي الْأَمْرِ۔ کسی سے کسی امر میں

مشورہ طلب کرنا۔

اِشْتَارَ اِشْتِيَارًا۔ الْعَسَلُ۔ شہد حاصل

کرنا۔ اِشْتَارَتِ الْاِبِلُ۔ کچھ موٹا ہونا۔

لَشُورَ۔ شرمندہ ہونا۔

تَشَاوَرُوا اِشْتَوَرُوا۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے

سے مشورہ کرنا۔

اِسْتَشَارَ۔ عَمَدَ لِبَاسٍ پَنَنًا۔ الْعَسَلُ

شہد نکالنا۔

اِسْتَشَارَتِ الْاِبِلُ۔ موٹا اور خوبصورت ہونا۔

اِسْتَشَارَ الْأَمْرَ۔ واضح ہونا۔ روشن

ہونا۔ کسی سے مشورہ طلب کرنا۔

الشُّورُ۔ م۔ شہد جو چھتے سے نکالا جائے۔

النَّارُ وَالنَّارُ وَالنَّارُ وَالنَّارُ

النَّارُ وَالنَّارُ وَالنَّارُ وَالنَّارُ

حُسْنُ وَخُلُوصَتِي، سَيِّئُ مُنْظَرٍ لِبَاسٍ،

زِينَتٌ۔ گھر کا عمدہ سامان۔ رِيحٌ شَوَارٌ

نرم ہوا۔ خَيْلٌ شَيَاسٌ۔ موٹے

خوبصورت گھوڑے۔ الشُّورُ۔ شہد

کا بچھتہ۔

الشُّورَةُ۔ شہد کا اسم مرہ۔ شرمندگی۔

الشُّورِي۔ ایک قسم کی سمندری گھاس۔

الشُّورِي۔ تَشَاوَرُ کا اسم ہے۔ یا۔ اشارہ

علیہ۔ کا۔ فُجْلِسُ شُورِي۔ کونسل۔

الشُّورِ۔ خوبصورت۔ صاحبِ جمال۔

الْمَشَاوَرُ۔ وزیر۔ ج۔ شُورَاءُ۔ الْمَشَارُ

شہد کی مکھیاں کا بچھتہ۔

الْمَشَارَةُ۔ کاشت کے قابل قطعہ زمین۔

ج۔ مَشَاوِرٌ وَمَشَارِيذُ۔

الْمَشُورُ۔ مفع۔ آراستہ زمین۔

الْمَشُورُ۔ جس چیز سے شہد نکالا جائے۔

ج۔ مَشَاوِرُ۔

الْمُشِيرُ۔ فا۔ ارباب سیاست کے نزدیک

کونسلر المشيریۃ۔ درجہ کونسلر۔

الْمُشِيرَةُ۔ انگشت شہادت۔ انگوٹھے کے

ساتھ کی انگلی۔

الْمَشُورَةُ وَالْمَشُورَةُ۔ اشارہ علیہ

کا اسم نصیحت۔ ج۔ مَشُورَاتُ۔

الْمَشَاوَرُ۔ منظر جانوروں کے دکھانے کی جگہ

شہد نکالنے کا آلہ۔ دھنکے کی کان کی

تانت۔ ج۔ مَشَاوِيرُ۔ أَخَذَتِ

الْحَيْلُ مَشَاوَرَهَا۔ گھوڑے موٹے

اور خوبصورت ہو گئے۔

الْمَشَاوَرَةُ۔ شہد کی جگہ۔

شَيْزٌ بِهٍ شُورًا۔ (مجمول) فریفتہ ہونا۔

الْأَشُورُ۔ متکبر۔

شَاسٌ يَشَاسُ وَشِوَسٌ يَشِوَسُ شُوسًا

وَتَشَاوَسَ۔ متکبر یا غصے کی وجہ سے

لنگھیں سے دیکھنا۔ دیکھنے کے لیے

آنکھیں چھوٹی کرنا۔ لڑائی میں بہت دلیر و

منجلا ہونا۔ صفت (اَشْوَسُ) مَوْنَتٌ

شَوْسَاءُ۔ ج۔ شَوْسُ۔ الشُّوسُ۔

لمبے آدمی۔

تَشَاوَسَ تَشَاوَسًا مَعْنَى شِوَسَ۔ متکبر و

نخوت دکھانا۔

شَوْشُ۔ الْأَمْرُ۔ ملانا۔ پریشان کرنا۔ بے

ترتیب کرنا۔

تَشَوُّشُ۔ عَلَيهِ الْأَمْرُ۔ گڑبڑ ہونا۔

مخلوط ہونا۔

تَشَاوَشَ الْقَوْمُ۔ قوم کا بے ترتیب ہونا۔

الْقَوَاشُ۔ اخلاف۔ اضطراب۔ عبارت

مُشَوِّشَةٌ۔ ترکیب یا معنی میں ٹھیک نہ

ہونے والی عبارت۔

شَاَصَهُ يَشُوْصُهُ وَيَشَاَصُهُ شَوْصًا۔

جگہ سے ملانا۔ ہاتھ سے ملنا۔ دھونا۔

شَاَصَ فَاءٌ بِالسَّوَالِكِ۔ مسواک سے

منہ صاف کرنا۔ (د۔ شَوْصًا وَشَوْصًا)

پھڑکنا۔ الرجلُ۔ کسی کی داڑھ یا

پیٹ میں درد ہونا۔ الجنین۔ ماں

کے پیٹ میں بچہ کا لاتیں مارنا۔ یہ

الْعَرَقُ۔ رگ کا حرکت کرنا۔ فُلَانٌ

يَفْلَانُ۔ کسی کا کسی پر شر کو برا سمجھنا

کرنا۔

شَوْصَتْ دَسَ شَوْصًا۔ عَيْنُهُ۔ ایسی موٹی

ہونا کہ دونوں پلکیں آپس میں نہ مل سکیں۔

آنکھ کی پلک کا بہت پھڑکنا۔ پھڑکنے

والی پلکوں والا۔ (اَشْوَصُ) آنکھ۔

(شَوْصًا) ج۔ شَوْصُ۔

شَوْصَ تَشَوِّصًا وَشَاَصَ اِشَاَصَةً۔

الرجلُ۔ مسواک کرنا۔

الشَّوْصَةُ م۔ رگ کی پھڑک۔ ورم پلو۔

پیٹ میں ریاحی درد۔

الشَّيْءُ - بدھلے۔ بد مزاجی۔
 شَاظَ يَشُوْطُ شَوْطًا - بے الغضب۔
 غصہ بھڑکنا۔
 شَوْطًا - لمبا سفر کرنا۔ القَدَرُ - ہانڈی
 کو جوش دینا۔ اللَّحْمُ - گوشت
 پکانا۔ الصَّقِيْعُ النَّبَاتُ - سردی کا
 پودے کو جھلنا۔
 تَشَوَّطَ - الفرس گھوڑے کو تھکانا۔
 الشَّوْطُ - انتہا۔ دور۔ جہ۔ اَشْوَاطٌ -
 شَاظَ يَشُوْطُ شَوْطًا - پھلانگنا۔ گالی دینا۔
 بے الغضب۔ غصہ بھڑکنا۔
 تَشَاوَضَ - القوم ایک دوسرے کو گالی دینا۔
 الشَّوَاظُ وَالشَّوَاظُ - بغیر دھوئیں کے شعلہ
 آگ یا سورج کی گرمی۔ پیاس کی شدت،
 جھنجھکار۔ گالی گلوچ۔
 شَوْعٌ - يَشُوْعٌ شَوْعًا - الواسُ - سر
 کے بالوں کا پراگندہ اور گرد آلود ہونا۔
 الفرس گھوڑے کے ایک رخسارے
 کا سفید ہونا۔ صفت (د اشْوَعُ)
 مؤنث۔ شَوْعًا - جہ۔ شَوْعٌ -
 شَوْعٌ تَشْوِيْعًا - القوم قوم کو جمع کرنا۔
 الشَّوْعُ - بان کا درخت۔ واحد۔ شَوْعَةٌ
 جہ۔ شِيَاعٌ -
 اِلْمَشْوَاعُ - تنور میں آگ بلانے کی سیخ۔
 اصل میں مَشِيَاعٌ ہے۔
 شَاظَ يَشُوْطُ شَوْطًا - صیقل کرنا۔ جلا
 دینا۔ الجمل بالعطران - اونٹ
 پر قطران ملنا۔
 شَيْفَتٌ - الجارية - لڑکی کا بناؤ
 سنگار کیا جانا۔
 شَوَّفَتْ - الجارية - لڑکی کا بناؤ سنگار
 کرنا۔ آراستہ کرنا۔
 اَشَاتَ اِشَاقَةً - علیہ۔ اوپر سے جھانکنا
 - منہ کسی سے ڈرنا۔ خوف کھانا۔
 الشَّيْءُ - بلند ہونا۔

تَشَوَّفَ - تَشَوَّفًا - مزین ہونا۔ آراستہ ہونا۔
 - مِنَ السَّطْحِ - اوپر سے جھانکنا۔
 إِلَى الشَّيْءِ - کسی چیز کی طرف جھانکنا۔
 الشَّيْءُ - چیز کا بلند ہونا۔
 اِشْتَاتَ اِشْتِيَاً - لاینبہ۔ گردن دراز
 کر کے دیکھنا۔ الدبوق - بجلی دیکھنا۔
 رَوَاثَاتُ (الجِرْحُ) - زخم کا
 سخت ہونا۔
 الشَّوْفُ - بینگا۔ زمین برابر کرنے کا آلہ۔
 الشَّيَاتُ - آنکھ کے لیے دوا کی بتی۔
 الشَّيْفَةُ وَالشَّيْفَانُ - دیکھ بھال کرنے
 والا۔ دیدبان۔ فوجی اسکاؤٹ۔
 الشَّوَاتُ - مِنَ الرِّجَالِ - تیز نظر آدمی۔
 الْمَشَوْتُ - مفع۔ مزین۔ مِنَ الْجَمَالِ
 قطران ملا ہوا اونٹ۔
 شَاظَنِي يَشُوْقَنِي شَوْقًا وَتَشْوَاظًا -
 الْحُبُّ إِلَيْهِ - شوق دلانا۔ صفت
 مفعولی (مَشْوُوقٌ) - صفت فاعلی۔
 (شَارِقٌ) شَاقٌ الْقَرَبَةُ - مشک کو
 دیوار کے ساتھ لٹری کرنا۔ صفت مفعولی
 (مَشْوُوقَةٌ) - الطنب إلى الوتد -
 خیمہ کی رسی کو کھونٹے سے باندھنا۔
 اَشَاقَهُ اِشَاقَةً -
 شَوْقَهُ - إِلَيْهِ - شوق پر اکسانا۔ برا لگینہ کرنا۔
 تَشَوَّقَ - الشَّيْءُ وَالْأَيْلُ - بہت شوق
 ظاہر ہونا۔
 اِشْتَاظَهُ اِشْتَاظًا إِلَيْهِ - بہت چاہنا۔
 الشَّوْقُ - مفع۔ سخت خواہش۔ بڑی آرزو۔
 جہ۔ اَشْوَاقُ،
 الشَّيْءُ وَالْأَيْلُ - وہ چیز جس سے کسی
 چیز کو کھینچ کر دوسری چیز سے باندھیں۔
 جیسے خیمہ کی رسیاں۔
 الشَّيْقُ - مشتاق۔ الرجلُ الْأَشْوَاقُ -
 بلند قامت آدمی۔ جہ۔ شَوْقٌ -
 شَاكَ يَشُوْكُ شَوْكًا - کاٹنا چھوننا۔

شَاكَتَهُ الشَّوْكَةُ - کاٹنا چھوننا۔
 شَاكَ يَشَاكُ شَاكَةً وَشِيْكَةً - کانٹوں
 میں پڑنا۔ بِالشَّوْكَةِ - کاٹنا چھوننا۔
 الشَّوْكُ - کانٹوں میں گرنا۔ (ر۔ شوگا) کسی
 کی شوکت و تیزی ظاہر ہونا۔ لہجاء
 البعير - اونٹ کا لمبے دانتوں والا ہونا۔
 - ثَدْيُ الْجَارِيَةِ - لڑکی کے
 پستان نمودار ہونا۔ نکلتے لگنا۔
 شَيْكٌ - کاٹنا چھوننا۔ الْجَسَدُ - جسم پر
 سرخ پھنسیاں ہونا۔ صفت (مَشْوُوكٌ)
 اَشَاكَتَهُ - کاٹنا چھوننا۔
 اَشَوَّكَ - المكان - کسی جگہ کا کانٹوں وال
 ہونا۔ اَشَوَّكَتِ الشَّجَرَةُ - درخت
 کا خار دار ہونا یا بہت کانٹوں والا ہونا۔
 صفت (مَشْوُوكَةٌ)
 شَوَّكَ - الشَّجَرُ - درخت کا کانٹے وار ہونا۔
 درخت پر کانٹے لگنا۔ الْحَاظُ -
 دیوار پر کانٹے رکھنا۔ الْمَوْخُ -
 پھوڑے کا پر نکالنا۔ شَارِبُ الْغَلَامِ -
 لڑکے کی مونچھوں کا سخت ہونا۔ الرَّاسُ
 بَعْدَ الْحَلْقِ - سر منڈانے کے بعد پیر
 نئے بال لگنا۔
 الشَّوْكُ - مفع۔ کاٹنا۔ جہ۔ اَشْوَاكٌ -
 واحد (شَوْكَةٌ)
 الشَّوْكَةُ - ایک کاٹنا، چھوکاؤنگ۔ سرخ
 پھنسی، ہتھیار اور اس کی تیزی۔ طاقت۔
 وجہ۔ دشمن کو ایذا دہی۔ لَا تَشْوُ
 لَكَ مِثْلِي شَوْكَةٌ - تم کو میری طرف
 سے کوئی ایذا نہیں پہنچے گی۔ شوکہ -
 الْحَاثِلُ - جولاہے کا تانا بانا برابر
 کرنے کا آلہ۔ شَوْكَةٌ مُبَارَكَةٌ و
 شَوْكَةٌ يَهُودِيَّةٌ وَشَوْكَةٌ
 بَيْضَاءُ - جڑی بوٹیوں کے نام ہیں۔ ریح
 الشوكة - باغ کے انگوٹھے میں نکلنے
 والی پھنسی جو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے،

اور اس میں کائناتے چیتے محسوس ہوتے ہیں
شَاكٌ۔ ج۔ شَاكَةٌ۔ (ر۔ الشَّوْكُ) کائناتے
دار۔ شَاكٌ السِّلَاحِ وَ شَوْكُ
السِّلَاحِ۔ ہتھیاروں سے مسلح۔
ارضٌ شَاكَةٌ۔ کانٹوں والی زمین۔
الْأَشْوَكُ۔ مِنَ الثِّيَابِ وَخَوَّاهَا۔ کھورا
کپڑا۔ مُؤَنَّثٌ۔ شَوَّكَاءُ۔
شَالٌ يَشْوُلُ شَوْلًا وَشَوْلَانًا۔ الذَّيْبُ
وغیرہ۔ دم کا بلند ہونا۔ شَالُ الشَّيْءِ
وَيَا لَشَيْءٍ۔ بلند کرنا۔ المِيزَانُ۔ ترازو
کے ایک پلے کا اٹھ جانا۔ شَالَتْ
الْعُقْبَةُ۔ (وَالذَّقُّ)۔ مُشْكٌ کے بھر
جانے یا پھونکنے جانے کے سبب اس
کی ٹانگوں کا اٹھ جانا کہتے ہیں شَاكَتْ
لِعَامِنَةٍ۔ وہ ناراض ہو کر پھر یا ماضی
ہو گیا۔ وہ مر گیا۔ وَشَالَتْ لِعَامَتِهَا
وہ اپنے مکانوں کو خالی کر گئے۔ اور
متفرق ہو گئے یا ان کا اتفاق ٹوٹ گیا۔
اور ان کی عزت جاتی رہی۔
أَشَالٌ۔ الشَّيْءُ۔ بلند کرنا۔ اٹھانا۔
شَوْلٌ كَشْوِيلًا۔ لَبِنٌ الدَّخْلَةُ۔ اونٹنی
کا دودھ گھٹنا۔ کم ہونا۔ شَوْلَتْ النُّوقُ
اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو جانا۔
شَوْلُ الْمَاءِ۔ پانی کا کم ہونا۔
الْمَزَادَةُ۔ کم پانی والا ہونا۔ فِي الْمَزَادَةِ
تھوڑا پانی باقی رکھنا۔
شَوْلٌ۔ الْحَجَرُ۔ اٹھانا۔ ہ۔ وہ۔
بِشَانَارٍ۔ وَتَشَاوَلِ الْقَوْمُ بِالرَّمَاحِ
ایک دوسرے پر نیزہ سے حملہ کرنا۔
إِنْشَالٌ إِنْشِيَالًا۔ بلند ہونا۔
إِنْشَالٌ إِنْشِيَالًا۔ بلند ہونا۔ بہ۔ کسی
سے تعرض کرنا اور گالی دینا۔
اسْتَشَالَتْ۔ الدَّخْلَةُ ذَنْبُهَا۔ اونٹنی کا
اپنی دم کو اٹھانا۔
الشَّوْلُ۔ م۔ ہلکا۔ سبک۔ ڈول وغیرہ میں

بقیہ پانی بھوڑا پانی۔ ج۔ اَشْوَالٌ۔
الشَّوْلُ۔ کام و خدمت میں جست۔
الشَّوْلَةُ۔ ایک بار کا اٹھنا۔ بچھو کے ڈنک کا
اوپر کا حصہ۔ بیوقوف عورت۔
شَوْلَةٌ وَشَوْلَةٌ۔ بچھو کا اسم علم ہے۔
الشَّوَالَةُ۔ چغل خور عورت۔
الشَّوَالُ۔ بالوں یا اون کا بڑا بورا۔
الشَّالُ۔ بڑی چادر جو کندھوں پر ڈالتے
ہیں۔ ج۔ شَيْلَانٌ وَشَالَاتٌ۔ و
دَالشَّالَةِ (اس سے اخص ہے۔
(داعجمیۃ) الناقلة (الشَّالِيلُ)
مستی کے وقت دم اٹھانے والی اور
دودھ نہ دینے والی اونٹنی۔ ج۔
شَوْلٌ وَشَوْلٌ وَشَيْلٌ وَشَيْلٌ۔
الشَّالِيلَةُ۔ مُؤَنَّثُ الشَّالِيلِ۔ مِنَ الْإِبِلِ
وہ اونٹنی جس کے حمل یا وضع حمل کو
سات ماہ گزر گئے ہیں اور اس کا
دودھ خشک ہو گیا ہو۔ ج۔ شَوْلٌ وَ
أَشْوَالٌ وَشَوَالٌ۔
شَوْلٌ۔ قمری سال کا دسواں مہینہ۔ ج۔
شَوَالَاتٌ وَجَبَر۔ شَوَاوِيلٌ۔
الْمِشْوَالُ۔ زور آزمائی کے لیے اٹھایا جانے
والا پتھر۔ نال۔
الْمِشْوَالُ۔ چھوٹی درانتی۔
شَانٌ يَشْوُنُ شَوْنًا۔ الدُّوْقُوسُ۔ دماغ کے
کیڑے نکالنے کے لیے سر کھولنا۔
تَشْوَنٌ۔ کم عقل ہونا۔
الشَّوْنَةُ۔ بے وقوف عورت۔
الشَّوْنَةُ۔ غلہ کا خزانہ۔ جنگی جہاز۔ ج۔
شَوَانٌ۔
الشَّوَانُ۔ غلہ جمع کرنے والا۔
شَاةٌ يَشْوُهُ شَوْهًا وَشَوْهَةً۔ الْوَجْهَةُ
چہرہ کا قبیح ہونا۔ الرَّجُلُ يَشْوُهُ
کرنا گھرا دینا۔ حسد کرنا۔ نظر لگانا۔
شَاهَتْ نَفْسُهُ إِلَى كَذَا۔ اس نے

لاچ و حرص کی۔
يَشْوُهُ يَشْوُهُ۔ شَوْهًا۔ الْوَجْهَةُ۔ بدرو ہونا
۔ العَنَقُ۔ دراز گردن ہونا۔ کوتاہ گردن
ہونا (مضد)
شَوْهٌ۔ اللَّهُ وَجْهَهُ۔ چہرہ کا بد شکل ہونا۔
تَشْوُهُ۔ بد شکل ہونا۔ بکری کو شکار کرنا۔
يَغْلَاوِينَ۔ اپنے آپ کو کسی کے لیے
ناشنا سا کرنا۔ نظر لگانے کے لیے کسی
کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔
الشَّوْهَةُ۔ م۔ قبیح۔ بد شکل۔ خوبصورتی (مضد)
گردن کی درازی اور بلندی۔ سر اٹھانا۔
الشَّوْهَةُ۔ دوری۔ بد شکل۔
النَّشَاةُ۔ بادشاہ۔ نسبت کے لیے شَاہِیْ
وَشَاہَانِیْ۔ (فارسی کلمہ ہے)
النَّشَاةُ۔ فَا۔ حاسد۔ ج۔ شَوْهَةٌ۔
نَشَاةٌ يَنْدَرُ۔ سودا گروں کا رئیس۔
نَشَاةٌ يَلْوَطُ۔ کتنے کا درخت۔ رَجُلٌ
نَشَاةٌ الْبَصَرِ وَشَاہَةُ وَشَاہِيَّةٌ۔
تیز نظر کا آدمی۔
النَّشَاةُ۔ بکری۔ بکرا۔ ج۔ شَاءٌ وَشِيَاءٌ وَ
شَوَاءٌ وَآشَاوَةٌ وَشِيَهُ وَشِيَهُ۔
وَشَوِيٌّ۔ تھیر شویہ و شویہ۔
ج۔ شَوِيَّهَاتٌ۔ نسبت کے لیے
شَاوِيٌّ۔
النَّشَاهِيَّ۔ بکری والا۔
الْأَشْوَةُ۔ بد شکل۔ جلد نظر بدل گانے والا۔ متکبر۔
مؤنث۔ شَوْهَاءُ۔ ج۔ شَوْهَةٌ۔
الشَّوْهَاءُ۔ ترش و عورت۔ بد شکل۔
خوبصورتی (مضد) عورت۔ خُشْنُ
شَوْهَاءُ۔ تیز نظر گھوڑا۔ ارض
مشاہہ۔ بہت بکریوں والی زمین۔
الْمُشْوَةُ۔ بد شکل۔ ناموافق اجزا والا۔
شَوِيٌّ يَشْوِي شِيَاءً۔ الدَّحْمُ۔ گوشت کو
آگ میں بھونا۔ صفت مفعولی (مشتوی)
الماء۔ پانی گرم کرنا۔

اشوی و اشوی۔ القوم۔ قوم کو بھنا ہوا
گوشت کھانا۔ الوجہ۔ ایسے
حصہ پر زخم لگانا کہ اس سے موت واقع
نہ ہو۔ اشوی السهم۔ تیر کا نشان
خطا کرنا۔ اشوی الزرع۔ بھوننے
کے لائن ہونا۔ الرجل۔ رات کے
کھانے سے کچھ چھوڑ دینا۔ اشوی
السعف۔ درخت خرما کی شاخ کا
نر۔ دہو کر سوکھ جانا۔ اسی سے ہے
”ما اعیاء وما اشواء“۔ وہ کس قدر
مذہور ہے۔

اشوی اشواء و اشوی
اشوی۔ اشوی۔ اشوی۔ اشوی۔
الرجل۔ بھونا۔

الاشوی۔ اونی قسم کا مال۔ آسان معاملہ۔
بائت پاؤں اور جسم کے اطراف۔ وہ
اعضائے جسمانی جن پر زخم لگنے سے
قتل واقع نہ ہو۔ (اشواء و الشواء)
کھوپری کا پڑا۔

الاشوی و الشواء۔ بھنا ہوا گوشت وغیرہ۔
والشواء و الشواء و الشواء
بھنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا۔

الاشواء۔ گوشت، بھوننے والا۔
الاشوی و الشوی و الشوی و الشوی و
الاشوی۔ من المال۔ روی مال
ہلاک شدہ قوم یا مال کا بقیہ۔ ج۔
شویا۔ سمعہ شویا۔ درخت خرما
کی سوکھی ہوئی شاخ۔

الاشوی۔ بھنا ہوا گوشت۔
الاشواء۔ گوشت بھوننے کا آلہ۔ گوشت
بھوننے کی کڑابی یا سیخ۔ ج۔ ہشوا۔

شاء و یشاء۔ شیا و ہشیا۔ و
مشاء و مشیاء۔ ارادہ کرنا۔
چاہنا۔ صفت فاعلی۔ (شاعر صفت
مفعولی) (مشی) اللہ الشیء اللہ

کا مقرر کرنا۔ تعجب کے موقع پر کہتے
ہیں ”ما شاء اللہ“۔
شیا و۔ علی الامر۔ کسی کو کسی امر پر
اکسانا۔ ابھارنا۔ شیتا اللہ وجہ
بد شکل بنانا۔

آشاء الیہ آشاء۔ مجبور کرنا۔
تشیاء تشیوا۔ غصہ ہٹانا ہونا۔
الشیء۔ م۔ چیز۔ جو چیز جانی پہچانی جائے۔
اور اس کی خبر دی جاسکے۔ ج۔
آشیا و جج آشوا و آشیا و ات و
آشوات و آشیا۔ تصغیر شییء و
شیییء۔

الشیء۔ شاء کا اسم۔ (والمشیء)
ارادہ۔

المشیء بد شکل بنا ہوا صورت والا۔
شباب یثیب شیب و شیب و
مشیب۔ سفید بالوں والا ہونا۔ بوڑھا
ہونا۔ صفت مذکر۔ (آشیب و شایب)
صفت مؤنث۔ (شایب) کہتے ہیں

”شابت رؤوس الاکام“۔ ٹیلوں کی
چوٹیاں برف سے سفید ہو گئیں۔

آشباب۔ الرجل۔ بوڑھی اولاد والا ہونا۔
آشباب و شیب۔ الحزن فلانا و
یفلان۔ غم کا کسی کو بڑھا کر دینا۔

الاشیب۔ سفید سر والا۔ من الأيام۔
بادل اور برف والا دن۔ ج۔ شیب
و شیب۔ الیشیب۔ برف سے
ڈھکے ہوئے پہاڑ۔

الاشایب۔ ف۔ سفید سر والا۔ مؤنث۔
شایبہ۔ ج۔ شیب۔ یوم شیبان
بادل اور سردی والا دن۔ (و شیبان)
ماہ دسمبر۔

الاشیء۔ اسم قرۃ شباب کا اسم۔ فستین۔
تھکنا۔ یثیب شیب۔ علی حاجتہ۔ چونکہ
رہنا۔ چوکس ہونا۔ کوشش کرنا۔ ڈرنا۔

شیتہ۔ ڈرنا۔ شیم خصمہ۔ ختم کو
تنگ نگاہوں سے دیکھنا۔

آشاح۔ اشاحہ۔ فی امرہ۔ کوشش کرنا۔
ڈرنا۔ وجہ و بوجہ و اشاح
عند وجہ۔ کراہیت سے منہ پھیر
لینا۔ المكان کسی جگہ کا شیخ نامی
گھاس پیدا کرنا۔ الغرس بذنبہ۔
گھوڑے کا اپنی دم کو ڈھیلا چھوڑنا۔

شایحہ مشایحہ و شیاحہ۔ لڑنا۔
جنگ کرنا۔ فی الامر۔ کوشش کرنا۔

الشیحہ۔ ایک قسم کی گھاس۔ واحد (شیحہ)
من الرجال۔ کاموں میں کوشش کرنے
والا۔ محتاط۔ چوکس۔ چونکہ۔

الشیحہ۔ کوشش۔ ڈر۔ قوط۔
المشیکان و المشیکان و الشیح۔ لمبا۔
غیر تند۔ ہوشیار۔

شاح یشیخ شیا و شیوخہ و
شیوخہ و شیوخہ و شیوخہ
و شیوخہ و شیوخہ۔ بوڑھا
ہونا۔

شعہ۔ بوڑھا ہونا۔ کسی کی تعظیم کے لیے
شیخ کہہ کر بلانا۔ یا شیخ کہنا۔ علیہ
غیب لگانا۔ طعن و تشنیع کرنا۔ بہ۔
رسوا کرنا۔

شعہ۔ بوڑھا ہونا۔
الشیخ۔ بوڑھا۔ بڑی عمر کا۔ ج۔ شیوخ
و شیوخ و آشیا و شیوخہ و
شیخہ و شیکان و ہشیخہ و
ہشیخہ۔ وجہ۔ ہشایخہ و

آشایخہ۔ مؤنث (شیخہ) شیخ کی
تصغیر شییخہ و شییخہ ہے۔
شیخہ المذاتی عورت کا شوہر اور شیخ
استاد، عالم، قوم کے سردار اور بڑے،
اور ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کی
نظر میں علم، فضیلت اور مرتبہ و درجہ وغیرہ



کے لحاظ سے بڑا ہو۔ شیخ السار۔
شیطان۔
الشَّيْخُونُ۔ بوڑھا۔
شَادَ يَشِيدُ شَيْدًا وَشَيْدًا۔ المِنَاءُ۔
عمارت کو بلند کرنا۔ الحَائِطُ۔ دیوار
پر چوڑے کا پسٹر کرنا۔ جلدہ
بالطیب۔ جسم پر خوشبو ملنا۔ شاد
الرجل۔ ہلاک ہونا۔ شاد الابل۔
شیڈا۔ اونٹوں کو بلانا۔
أَشَادَ كَأَشَادَةٍ۔ ہلاک کرنا۔ أَشَادَ
بذکرہ تعریف کے شہرت دینا۔
اشاد علیہ قَبِيحًا وَدِقْبِيحًا۔ کسی کو
برائی سے مشہور کرنا۔ اشاد علیہ
کسی کے بارے میں برائی کو شہرت دینا۔
المُعْتَبَى۔ گانے والے کا بلند آواز سے
گانا۔ أَشَادَ الصَّالَةَ گئی ہوئی چیز
کی تعریف کرنا۔ البیان۔ لمبا کرنا۔
الشَّيْدُ۔ بچہ وغیرہ کا بستر۔
المَشِيدُ۔ مفع۔ بستر کی ہوئی (والمَشِيدُ)
بلند کیا ہوا۔ اونچا۔
شَيَّرَ۔ الْبُرْدُ۔ چادر پر دھاری ڈالنا۔
الشَّيْزُ وَالشَّيْزِي۔ سیاہ اور بہت سخت
لکڑی یا آبنوس کی لکڑی۔
أَشَاشَتِ۔ النخلة۔ نرم گٹھلی کی کھجور
نکالنا۔
الشَّيْشُ۔ نرم گٹھلی کی کھجور۔ عام لوگ "شیش"
گوشت بھوننے کی لوبہ کی سیخ کو کہتے ہیں۔
شَيْصَ۔ القوم۔ قوم کو ایذا پہنچا کر عذاب
دینا۔ شَيْصَتِ النخلة۔ درخت
خرما کا ردی کھجور لانا۔
الشَّيْصُ۔ ردی ناکارہ کھجور۔ ایک قسم کی
مچھلی۔ واحد شَيْصَةً
الشَّيْصُ۔ بد مزاجی۔
الشَّيْصَاءُ۔ نرم گٹھلی کی کھجور۔ واحد (شَيْصَاة)
المُعَايَصَةُ۔ دشمنی۔ منافرت۔

شَاطَ يَشِيْطُ شَيْطًا وَشَيْطَانَةً وَشَيْطُوطَةً
– الشَّيْءُ۔ جانا۔ شَاطَتِ القدس۔
ہانڈی کی تہ میں پکی ہوئی چیز کا جل کر لگ
جانا۔ شَاطَ الذَّبِيْثُ۔ تیل کا گڑھا ہو
کر جلنے کے قریب ہونا۔ شَاطَتِ
الذَّبِيْحَةُ۔ ذبیحہ کا گوشت سب بارٹ
لینا۔ فَلَانٌ۔ ہلاک ہونا۔ فی الأمير
جلدی کرنا۔ دَمْنٌ۔ رائیگاں جانا۔
فَلَانُ الدَّمَاءِ۔ خون پلانا۔ یعنی قاتل کو
مقتول کے خون پر قتل کرنا۔
شَيْطًا وَأَشَاطَ۔ الصَّغْبَةُ النَّبْتُ او
الدَّوَاءُ الْجَوْمُ۔ ہالے کا نبات کو یا
دوا کا زخم کو جلا دینا۔ الراس افاکوع
سری یا پاؤں کے بالوں کو آگ پر جھلنا۔
القدر۔ ہانڈی کو جوش دینا۔ أَشَاطَ
فَلَانًا۔ کسی کو ہلاک کرنا۔ أَشَاطَ
اللحمَ عَلَى القومِ گوشت کو قوم پر
تقسیم کرنا۔ أَشَاطَ السُّلْطَانُ دَمْنًا
وَبَدْنًا۔ کسی کو قتل کے لیے سامنے
لانا۔
تَشَيَّطَ۔ جانا۔
أَشْطَا شَيْئًا۔ علیہ غصہ سے بھر جانا۔
أَسْتَشَاطَ۔ علیہ۔ غصہ سے بھر جانا۔
الحمام۔ کبوتر کا خوش ہو کر اڑنا۔
من الامیر۔ ہلاک ہونا۔ فی الحرب
لڑائی میں اپنی جان جھونکنا۔
الشَّيْطَانُ۔ روفی وغیرہ جتنے کی بو۔
التَّشْيِيْطُ وَالْمَشْيِيْطُ۔ قوم کے لیے بھوننا یا گوشت
الشَّيْطِيَّ۔ فضا میں بلند ہونے والا غبار۔
المُسْتَشْيِيْطُ۔ خا۔ بہت ہنسنے والا مڑا اونٹ۔
شَاعَ يَشِيْعُ شَيْعًا۔ بالخبر۔ خبر مشہور
کرنا۔ پھیلانا۔ الرنَاءُ۔ برتن بھرننا۔
شَاعَ يَشِيْعُ شَيْعًا وَشَيْعًا وَمَشَاعًا
وَشَيْعَانًا وَشَيْعُوْعَةً۔ الخبر۔
خبر کا پھیلنا۔ فیه الشَّيْبُ۔ بڑھاپا

کسی میں ظاہر ہونا۔
شَاعَ شَيْعًا۔ تابع ہونا۔ ساتھ دینا۔ ہمراہ جانا
اور اسی سے ہے۔ "شاعكم السلام"
سلامتی تمہارے ساتھ رہے۔
أَشَاعَ إِشَاعَةً۔ الخبر۔ بالخبر۔ خبر
پھیلانا۔ اشاعكم الله بالسلام۔
خدا تمہارے ساتھ سلامتی رکھے۔ خدا حافظ۔
شَيَّعَهُ۔ رخصت کرنے کے لیے کسی کے ساتھ
جانا کسی کو اس کی منزل تک پہنچانا۔
شَيَّعَ۔ شَحْرَ رَمَضَانَ۔ رمضان کے
متصل ہی پھر روزے رکھنا۔ الرجل۔
کسی کو جرات دلانا۔ قوی کرنا۔ النارُ
آگ تیز کرنے کے لیے اس میں لکڑیاں
ڈالنا۔ الشَّيْءُ بالنار۔ آگ سے جلانا۔
الرجل۔ شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔
الشَّيْءُ۔ بھیجنا اور بھیجنا۔
شَايَعَهُ۔ کسی کام کے لیے ہمراہ جانا۔ شایع
بھمہ الدلیل۔ رہنما کا لوگوں کو بلانا،
پکارنا۔ بالابل۔ اونٹوں کو پکار کر بلانا۔
تَشَيَّعَ۔ شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اللبنُ
فی الماء۔ بکھنا۔ هُ الْغَضَبُ۔ کسی
کے دل میں غصہ کا بھر جانا۔ فَلَانٌ فِي
الشَّيْءِ۔ کسی کی محبت میں جان ہلاک کرنا۔
ه الشَّيْبُ۔ کسی میں بڑھاپے کے آثار
ظاہر ہونا۔
تَشَايَعَ تَشَايَعًا۔ القوم۔ مختلف گروہ ہونا۔
تَشَايَعُوا عَلَى الْأَمْرِ۔ کسی پر موافقت
کرنا۔ اتفاق کرنا۔ تَشَايَعُوا فِي دَارٍ۔
گھر میں شریک ہونا۔ تَشَايَعَتِ الْاَبِلُ
اونٹوں کا متفرق ہونا۔
إِشْتَاعًا لِشَيْئًا۔ فی دار۔ شریک ہونا۔
الشَّيْعُ۔ صم۔ مقدار۔ مثل۔ جر۔ أَشْيَاعُ
اسی سے ہے۔ کما فعل بِأَشْيَاعِهِمْ
یعنی جس طرح کہ ان کے مثل لوگوں کے
ساتھ کیا گیا۔ اَقْبَتُ عِنْدَهُمْ شَهْرًا

تَشَيَّمَ أَبَاهُ خصلت میں باپ کے مشابہ ہونا
الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ داخل ہونا۔ الشَّيْبُ
فُلَانًا کسی پر بڑھاپا آجانا۔

الشَّامَةُ تل۔ زمین میں سیاہ نشان۔ چاند کے
نیچے کی سیاہی۔ سیاہ اونٹنی۔ جر۔ شام و
شَامَاتُ۔ صَارُوا شَامًا فِي الْبَلَادِ۔
وہ شہروں میں بکھر گئے۔ مَالَهُ شَامَةٌ وَ
لَا ذَهْرًا۔ اس کے پاس کچھ نہیں۔
الشَّيْخَةُ وَالشَّيْخَةُ خلق، عادت،
طبیعت۔ جر۔ شَيْخٌ۔

الشَّيْخُ۔ وہ زمین جو نہ کھودی گئی ہو اور اپنی سختی
پر برقرار ہو۔

الشَّيَامُ۔ نرم زمین۔ مٹی۔
الشَّيَامُ۔ مٹی۔ چوہا۔ جر۔ شَيْمٌ۔
الشَّيْمُ وَالْمَشْوُمُ وَالْمَشْيُومُ۔ تل والا۔
المَشْيُومَةُ۔ وہ جھلی جس میں بچہ ماں کے پیٹ
میں پٹا ہوا ہوتا ہے اور ولادت کے
وقت وہ بچہ کے ساتھ نکلتی ہے۔ جر۔
مَشْيُومٌ وَمَشْيُومٌ۔

شَانَهُ يَشِينُهُ شَيْنًا عیب لگانا۔
شَيْنٌ۔ الشَّيْنُ۔ حریفین لکھنا۔
المَشَائِينُ۔ عیوب۔ مصائب۔
شَاهَهُ يَشِيهُهُ شَيْمًا۔ نظر بد لگانا۔
الشَّيْوَةُ۔ وہ آدمی جس کی نظر لگتی ہو۔ کہتے ہیں
”هُوَ شَيْوَةٌ مِنْ أَشْيَاءِ النَّاسِ“۔ یعنی
اسے سب سے زیادہ نظر لگتی ہے۔
الشَّائِي۔ چائے۔

تَوَزَّكَ اُگ لانے کی سیج۔ الْمُتَشَايِعُ
وَالْمُتَشَايِعُ شَرِيكَ ساجھی۔
شَاَقَهُ يَشْبِقُهُ شَيْقًا۔ لائیو۔ کس کر
باندھا کہتے ہیں۔ شَاَقَ الطَّنْبُ إِلَى الْوَتَنِ
یعنی رسی کو کھونٹی سے مضبوط باندھا۔
الشَّيْقُ۔ پہاڑ کی چوٹی یا اس کی دشوار جگہ۔
جانب۔ پہاڑ کی تنگ درز۔ جانور کی
دم کے بال۔ ایک سمندری مچھلی۔ واحد
(شَيْقَةٌ)۔
الشَّيَالُ۔ بوجھ اٹھانے والا۔ بیلی۔
وَالشَّيَالَةُ۔ بیلی کا پیشہ۔

شَامَ يَشِيمُ شَيْمًا۔ بدن پر تل ہونا۔
صفت (أَشِيمٌ) مَوْنٌ شَيْمًا جر۔
شَيْمٌ وَشَوْمٌ۔ السَّيْفُ۔ تلوار
کومیان میں کرنا تلوار کومیان سے باہر کرنا۔
سَوْتَنَادُنْدُ۔ البرقی۔ بجلی کے
چمکنے اور برسنے کی سمت کو دیکھنا شَيْمًا
وَشَيْوَمًا، الوجُلُ۔ رٹائی میں جم
کر چمک کرنا۔ فی الشَّيْءِ داخل ہونا۔
الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ۔ چھپانا۔ الشَّيْءُ۔
تخمینہ لگانا۔ اندازہ کرنا۔ کہتے ہیں شَيْمٌ
مَا بَيْنَهُمَا یعنی ان دونوں کے
درمیان اندازہ کرو۔

شَيْمًا شَامًا وَالشَّامُ وَالشَّامُ۔
فی الشَّيْءِ أَوِ الْأَمْرِ داخل ہونا۔
الشَّامُ الدَّجَلُ۔ منظور نظر ہونا۔

أَوْ شَيْعَةً شَهْدًا میں اس کے پاس ایک
ماہ یا اس کی مقدار رہا۔ اَتَيْتُكَ عَدَا
أَوْ شَيْعَةً۔ میں تیرے پاس کل یا اس
کے بعد آؤں گا۔

الشَّاعَةُ۔ بدی۔ پھیلی ہوئی خبریں۔ یہ شَائِعٌ
کی جمع ہے۔

شَيْعَةُ الدَّجَلِ۔ آدمی کے پیر و اور دو کا
جر۔ شَيْعٌ وَأَشْيَاعٌ۔ وَالشَّيْعَةُ۔
فرقہ (واحد شَنِيعٌ جمع مذکر مؤنث سب
کے کہنے کیساں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ
وجہہ کے طرفدار۔ واحد (شَيْعِي)۔

الشَّيْعُ۔ حصہ وار شریک۔ جر۔ شَيْعَاءُ
مؤنث شَيْعَةٌ الدَّارِ شَيْعَةٌ بَيْنَهُمَا
گھرانے کے درمیان مشترک ہے۔

الشَّيْعُ۔ وہ چیز جس سے اُگ سلگائی جائے۔
الشَّائِعُ۔ فا۔ پھیلی ہوئی افشاں شدہ۔ سَمَرٌ
شَائِعٌ وَشَاعَ۔ وہ حصہ جو تقسیم نہ
ہوا ہو۔ سا بھا۔

المُشَاعُ وَالْمَشَاعُ۔ پھیلا ہوا۔ مشترک۔
غیر تقسیم شدہ۔ اسی سے ہے مَشَاعٌ
الْقُدَى۔ وہ اراضی یا جنگلات جن میں
سب باشندے شریک ہوں۔

المَشْيُوعُ۔ بھرا ہوا برتن۔ کینہ و رکنہ۔
المَشْيُوعَةُ۔ وہ ٹوکری جس میں عورتیں روٹی
وغیرہ رکھتی ہیں۔

المَشْيُوعُ۔ مفع۔ بہاؤ۔ جلد باز۔ المَشْيَاعُ۔

ص

صَبَبَ (س) صَبَابًا۔ مِنَ الشَّرَابِ۔
شراب سے سیراب ہونا۔ بھرنا۔

صَبَبَ وَأَصَابَ۔ الواس۔ سرکا
لیکھوں سے بڑھنا۔
الصُّوَابَةُ۔ لیکھ۔ جوں کا اندازہ۔ جر۔ صَوَابٌ

صَبَبَانُ۔
الصَّبَبَانُ۔ چھوٹے چھوٹے اولے۔
المَصَابُ۔ شراب سے بھرا ہوا یا سیر شدہ۔
صَاصًا۔ الجود۔ پلے کا آنکھ کھولنے کے
قریب ہونا۔ الوجُلُ۔ بزدل ہونا۔

ص

الدُّمُّ - خون کا جمنہ - بدم چمٹنا۔
صَاءَكَ مَصَاءَكَ - سختی سے پیش آنا
تنگی ڈالنا۔

الصَّيْتُ - من الوجال - مضبوط آدمی۔
صَلَّ يَصُولُ صَالَةً - البعير -
اونٹوں کا لوگوں پر حملہ آور ہونے لگنا اور
ان کو مار ڈالنا۔ صَفَّ (صَفَّو) -
صَالَ يَصِيلُ صَيْلًا - الفرس -
گھوڑے کا بہننا۔

صَامَ يَصَامُ صَامًا - الجيش على
القوم - قوم پر فوج کشی کرنا۔
صَيْمَ يَصَامُ صَامًا - بہت پانی پینا۔
الصَّائِلُ - پیاسا۔

صَائِي يَصِي (ص، ن، د) يَصَائِي د
صَيْثًا وَصَيْثًا وَصَيْثًا وَصَيْثًا
- الفرس - چوزہ کا چوں چوں کرنا۔ بچھو
کا آواز کرنا۔ اور اسی سے مثل مشہور
ہے "يَلْدَغُ دَيْصِي" کہ بچھو
ڈستا بھی ہے اور آواز بھی نکالتا ہے
یعنی وہ نقصان بھی دیتا ہے۔ اور
شکایت بھی کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں۔
"جَاءَ بَنَاءُ صَائِي وَصَحَتْ" وہ مال
ناطق اور صامت لایا، یعنی جانور بھی لایا
اور اسباب بھی۔

أَصَائِي - الفرس - چوں چوں کرنا۔
صَبَّ (ن، صَبَّ) - الماء - پانی گرنا۔ بٹونا
- فی الوادی - وادی میں اترنا۔
الدرع - زرہ پہننا۔ صَبَبْتُ
الدرع على فلان - میں نے فلان
کو زرہ پہنائی۔ کہتے ہیں "صَبَبْتُ
عليه البلاء من صَبَب" اس
نے اس پر اوپر سے مصیبت ڈالی۔
صَبَّ رَجُلُهُ فِي الْقَيْدِ - پاؤں میں
بٹری پہنائی۔

صَبَّ (ن، صَبَّ) - الماء - پانی کا بٹنا۔

گرنا۔

صَبَّ - الشيء - مٹا پا جانا۔
صَبَّ (ن، صَبَّ) - الماء - پانی گرنا۔
عاشق ہونا۔
فریفتہ ہونا۔

أَصَبَّ (صَبَّ) - الماء - پانی گرنا۔
اترنا۔

انصبت - الماء - پانی گرنا۔
اترنا کہتے ہیں "انصبت قدما
فی الوادی" یعنی ٹھہر گئے۔

اصطبت - الماء - پانی گرنا۔
اصطبت وتصابت - الماء - بقیہ پانی
پینا۔ اصطبت وتصابت العيش
باقی ماندہ زندگی گزارنا۔

تصبت - الماء ونحوه - بہنا۔
الصَّبَّ - مم - عاشق - ج - صَبَّوْنَ -
مونٹ - صَبَّ - ج - صَبَّات - ماء
صَبَّ - ہا ہوا پانی۔

الصَّبَّ والصَّبَّة - گرایا ہوا کھانا وغیرہ۔
الصَّبَّة - لوگوں کی جماعت - گھوڑے یا
اونٹوں یا بکریوں کا گله - تھوڑا مال۔
برتن میں بچا ہوا پانی - یاد دہشور یا
الصَّبَب - نہر یا راستہ وغیرہ کا ڈھلوان۔
زمین یا راستہ کا نشیب - ج -
أَصْبَاب -

الصَّبَابَة - برتن میں پانی وغیرہ کا بقیہ - ج
صَبَابَات - کہتے ہیں "لَمْ أَدْرِكْ
مِنَ الْعَيْشِ إِلَّا صَبَابَةً" یعنی
مجھے بچی کچی زندگی ملی ہے۔

الصَّبَابَة - سوزش عشق - سخت محبت۔
الصَّبِيْبُ - زور رنگ - اولہ عمدہ شہد
پسینہ - خون - غلام کا نچوڑ - سرخ
رنگ - اوپر سے گرائی ہوئی چیز تلوار
کی دھار

المَصْبُ - گرنے کی جگہ - دریا کا دہانہ۔
ج - مَصَابُ -

المَصْبُ - سا پنجرہ جس میں حروف وغیرہ
ڈھالے جاتے ہیں۔

المَصْبُوبُ - مفع - گرایا ہوا۔ برا لگینٹہ
کیا ہوا۔

صَبَّار (ن، وَصْبُور) - صَبَّارٌ وَصْبُورٌ -
مذہب تبدیل کرنا - صابی ہونا - صفت
دصابی - عَلَيْهِم - اچانک پہنچ
جانا - الْعَدُوُّ عَلَيْهِم - دشمن کی
رہنمائی کرنا - (ر) - وَأَصْبَأَ أَصْبَاءُ
النَّابِ او النَّبَاتِ - وائت یا نبات
کا ٹکنا - پھوٹنا - وَأَصْبَأَ الْقَوْمُ -
قوم پر اچانک پہنچ جانا۔

الصَّابِتُونَ وَالصَّابِتَةُ - ستاروں کی
پرستش کرنے والی ایک قوم - بعض کے
نزدیک وہ قوم جو خود کو دین نوح علیہ
السلام کا پیرو جانتی ہے۔

الصَّبَاوَاتُ وَالصَّبَاوُوتُ - شان
شوکت - جمال - طاقت - عبرانی - رَبُّ
الصَّبَاوَاتِ - شان والا۔

صَبَّحَ (ن، صَبَّحًا) - الْقَوْمُ - قوم کے پاس
بوقت صبح آنا - عَنِ الْحَقِّ - حق
ظاہر کرنا۔

صَبَّحَ (ن، صَبَّحًا وَصَبَّحَةً) - رُشْنُ
چمک دار ہونا - الشَّعْرُ - بال کا چمکدار
ہونا - الْحَدِيدُ - لوہے کا چمکدار
ہونا۔

صَبَّحَ (ن، صَبَّاحَةً) - الْوَجْهَ - چہرہ کا
چمکدار اور روشن ہونا - الْغَلَامُ
لڑکے کا صاحب جمال ہونا - صفت
صَبَّاحٌ وَصَبِيحٌ

صَبَّحَ - صَبَّحَ - صَبَّحَ - صَبَّحَ - صَبَّحَ -
پلانا - صَبَّحَ الْقَوْمُ الْمَاءَ - قوم کو چلا
کر صبح کو پانی میں اتارنا - الْوَجَلُ
صبح کو سلام کرنا۔

أَصْبَحَ - صبح میں داخل ہونا - نصف رات کو

جاگنا۔ المصباح۔ چراغ جلانا۔
الحق۔ حق ظاہر ہونا۔ اصبیح۔ اُڌو
عالمنا۔ زید عالم ہو گیا۔ لا صبحہ یا
رجل۔ خیر دارے شخص کسی سے بد فال
لیتے وقت عرب کہا کرتے " صباہ
اللہ لا صبا حلقہ"
تصبیح۔ صبح کو سونا صبح کا ناشتہ کرنا۔ تصبیح
بلہ۔ صبح کو ملنا۔
تصابیح۔ بتکلف خوبصورت بننا۔
اصبح۔ چراغ روشن کرنا۔ الوجہ۔ صبح
کی شراب پینا۔
استصبیح۔ چراغ جلانا۔ روشن کرنا۔
الصبیح۔ دن کا اول حصہ۔ جہ۔ اصباح۔
الصبیحۃ۔ صبح۔ ناشتہ، سہری، مائل سیاہ
رنگ۔ (د۔ والصبیحۃ) صبح کی نیند۔
الصباح والصبیحۃ والاصبوحۃ
دن کا ابتدائی حصہ۔ یحہ صبا حاکا۔
تمہاری صبح اچھی ہو۔ یوم الصبا۔
لوٹ کا دن۔
الصباح۔ شعلہ تندیل۔ غلام صباہ۔
حسین اڑکا۔ مونث۔ صبا حۃ۔ جہ۔
صباہ۔ الصبا حیۃ۔ چوڑا نیزہ۔
الصبا حی۔ بہت سرخ خون۔
الاصبیح۔ شیر۔ وہ بال جس میں خلقی سرخی
مائل سفیدی ہو۔ مونث۔ صبحاء
جہ۔ صبحہ۔
الصبوح۔ ہر چیز صبح کے وقت کھائی یا
پنی جانے والی۔ صبح کے وقت دوا ہوا
دودھ۔ ایتھۃ ذاصبوح۔ میں
اس کے پاس صبح کے وقت آیا۔
الصبیح۔ خوبصورت۔ جہ۔ صبا ح۔
مونث صبیحۃ۔ جہ۔ صبا ح۔
الصبحان۔ خوبصورت مونث صبحی۔
جہ۔ صبا حی۔ صبح کی شراب پینے والا۔
الصبا حیۃ۔ خوبصورتی۔

المصبیح۔ صبح کرنا۔ صبح کا وقت۔ صبح کرنے
کا مقام۔ جہ۔ المصبیح۔ بڑا پیالہ
چراغ۔
المصباح۔ چراغ۔ چوڑا نیزہ۔ صبح کی
شراب پینے کا بڑا پیالہ۔ جہ۔ مصابیح
مصابیح الخبوم۔ اعلام کو اکب۔
صبر رض، صبرا۔ علی الامر۔ بہادری
سے برداشت کرنا۔ صفت رہی صابر
وصبر وصبور عن الشیء۔
رکنا۔ الدائۃ۔ جانور کو بلا چارہ
کے باندھے رکھنا۔ د۔ مجبور کرنا،
لازم ٹھہرانا۔ د عن الامر۔ روکنا۔
قتل صبرا۔ وہ قتل کرنے کے لیے
بند کیا گیا۔ حلیف صبرا۔ اس کو
قسم کھانے کے لیے بند کیا گیا۔
صبرن، صبرا وصبارۃ۔ بلہ۔
ضامن بننا۔ د۔ ضامن دینا۔
اصبرنی۔ مجھ کو ضامن دو۔
صبرۃ صبر ولانا صبر کرنے کے لیے کہنا۔
المیت۔ مردہ کے پیٹ میں ایوار کھنا
تاکہ وہ سڑنے جائے۔ صبرا الکاس
پیالہ کو کناروں تک بھرنا۔
اصبر۔ اللبن۔ دودھ کی کھٹاس کا تیز ہو کر
کڑوا ہٹ تک پہنچنا۔ الشیء۔ ایلوے
کی طرح کڑوا ہونا۔ د۔ صبر ولانا۔
الوجل۔ مصیبت میں پڑنا۔ بول
کو کارک سے بند کرنا۔ القاضی
فلانا۔ قاضی کا ختم سے بدلہ دلانا۔
صابرۃ۔ صبرا و مصابرة۔ صبر میں
غالب آنا۔
تصبر۔ بناوٹی صبر کرنا۔ علیہ۔ صبر
کرنا۔
اصطبر ولا صبر۔ علیہ۔ صبر کرنا۔
منہ۔ بدلہ لینا۔
اصبار اصبرار۔ علیہ صبر کرنا۔

استصبر۔ الشیء۔ موٹا ہونا۔ سخت ہونا۔
الصبر۔ بہادری، مصیبت کی خاموشی سے
برداشت۔ شہد الصبر۔ ماہ
رمضان۔ یمین الصبر۔ قید کر
کے لی ہوئی قسم۔
الصبر والصبر۔ چیز کا کنارہ۔ طرف
سفید بال۔ جہ۔ اصبار۔ اخذ
الشیء با صبارۃ۔ تمام کی تمام لے
لی۔ و ملا الکاس الی اصبارھا
یعنی پیالے کو کنارے تک بھر دیا۔
الصبر والصبر۔ کنکریلی زمین جو سخت
نہ ہو۔
الصبر۔ برف۔ جہ۔ اصبار۔
الصبر۔ ایلوے۔ جہ۔ صبور واحد
د صبرۃ، اس کی با پرسکون نادر
طریقہ پر آتا ہے۔
الصبرۃ۔ غلہ کا انبار۔ اخذہ صبرۃ
اس نے اس کو بے ناپے تو لے سب کا
سب لے لیا سخت پتھروں کا ڈھیر۔ جہ۔
صبار۔
الصبارۃ۔ البوصابر۔ نمک۔
الصبارۃ۔ سواری یا شتی یا جہاز وغیرہ
میں رکھا ہوا بوجھ جس کی وجہ سے وہ
ادھر ادھر نہ جھک سکے۔
الصبرۃ والصبارۃ۔ سردی کی شدت۔
صبرۃ الشتاء۔ سردی کا درمیانی
زمانہ۔
الصبار۔ صبر۔ کارک۔ ڈاٹ۔
الصبارۃ۔ ضمانت۔ سردی کی تیزی۔ د۔
والصبارۃ۔ چکنے پتھر۔
الصبار والصبار۔ املی ناگ۔ پھنی۔
واحد (صبارۃ و صبارۃ)
الصبارۃ۔ بخر سخت زمین۔
الصبور۔ جہ۔ صبر۔ حلیم۔ بردبار۔ اللہ
تعالیٰ کا اسم مقدس۔ د۔ والصبار

بہت مہر کرنے والا۔

الصَّبُورُ - مِنَ الدَّجَالِ - قتل کے لیے قید کیا ہوا۔

الصَّبِيْرُ - مہر کرنے والا۔ ضامن۔ قوم کا مکھیا اور چودھری۔ پہاڑ۔ جر۔ صُبْرَاءُ الصَّبِيْرُ وَالصَّبِيْرَةُ - پوڑی روٹی۔

أُمُّ صَبَّارٍ وَأُمُّ صَبَّوْرٍ - مصیبت۔

الصَّبُورُ - قتل کے لیے قید کیا ہوا۔

دھیر لگایا ہوا۔ مَوْنَتْ (مَضْبُورَةٌ)

صَبَّصَبَ - متفرق کرنا۔ تَصَبَّصَبَ

الَلَّيْلُ - رات کا اکثر حصہ گزرنا۔

الْحَرُّ - گرمی کا سخت ہونا۔ علینا

فَلَائٍ - بہت جری ہونا۔

تَصَبَّصَبَ - متفرق ہونا۔

الصَّبَّصَابُ وَالصَّبَّصَبُ وَالصَّبَّاصِبُ

سخت، مضبوط۔

صَبَّعَ (ف) صَبَّعًا - بہ دے لیا۔ انگلی

سے اشارہ کر کے بتانا۔ صَبَّعَهُ

(ف) صَبَّعًا وَمَصْبَعَةً - متکبر بنانا

اور اسی سے ہے یہ قول - مَنْ وَلَاكُ

السُّلْطَانُ صَبَّعَهُ الشَّيْطَانُ -

بادشاہ جس کو حکم دیتا ہے شیطان

اس کو متکبر بناتا ہے۔ انگلی پر مارنا۔

صَبَّعَ الشَّيْءَ - کسی چیز میں انگلی ڈالنا۔

- بَيْنَ الْقَوْمِ - غیر کو قوم کا پتہ دینا۔

- فِي الطَّعَامِ - کھانے میں انگلی

ڈالنا۔

الْأَصْبَعُ وَالْإَصْبَعُ وَالْأَصْبَعُ وَ

الْإَصْبَعُ وَالْأَصْبَعُ وَالْأَصْبَعُ

وَالْأَصْبَعُ وَالْإَصْبَعُ وَالْأَصْبَعُ

انگلی، مونٹ ہے کبھی مذکر بھی متعل ہوتا

ہے۔ جر۔ اصْبَاعٌ۔ اصْبَاعٌ۔

اصْبَاعٌ - الغنّیات - ایک قسم

کا پھول۔ اصْبَاعُ الْعَذَارَى یا

اصْبَاعُ الْبَعْرَوْنِ - ایک لمبے دانہ

کا انگو۔

الْأَصْبُوعُ - انگلی۔ جر۔ اصْبَاعٌ۔

المَصْبُوعَةُ - غرور تکبر۔

المَصْبُوعُ - متکبر

صَبَّعَ (ن) صَبَّعًا - صَبَّعًا وَصَبَّعًا -

الثَّوْبَ - کپڑے کو رنگنا۔ يَدَا

فِي الْمَاءِ - پانی میں ہاتھ ڈرنا۔ يَدَا

بِالْعَمَلِ - کام میں مشغول ہونا۔

فَلَانًا فِي السَّهْوِ - کسی کو نعمتوں

سے چھپانا۔ صَبَّعَ بِالْمَاءِ - پانی سے

بتسمہ دینا۔

صَبَّعَ (ن) صَبَّعَ - مَرَّحَ النَّاقَةَ -

اوستی کے تھن کا بھرنے اور خوش رنگ ہونا۔

صَبَّعَ - صَبَّعَ كَمَا بَالِغُهُ - (اصْبَعُ)

الْخُلُ - کھجور کا پکنے لگنا۔ اصْبَعُ

عَلَيْهِ النِّعْمَةُ - کامل نعمت سے

نوازنا۔

تَصَبَّعَ - فِي دِينِهِ - کسی پر دین کا رنگ

اچھی طرح چڑھنا اور مذہب میں

پختہ ہونا۔

اصْطَبَعَ لِنَ لَكَ نَا - بَكَدَا - رنگین

ہونا۔

الصَّبَّعُ وَالصَّبَّعُ - جر۔ اصْبَاعٌ - وَ

الصَّبَّاعُ - جر۔ اصْبَعَةٌ - وَ

الصَّبَّاعُ - رنگ - الصَّبَّعُ

سالن جیسے سرکہ وغیرہ۔

الصَّبَّعَةُ - نوع، ملت، دین، بتسمہ کا رنگ۔

الصَّبَّعَةُ - کچی پکی کھجور۔

الصَّبَّاعَةُ - رنگ ریزی۔

الصَّبَّاعُ - فَا - رنگنے والا۔

الصَّبَّعُ - رنگا ہوا۔ الصَّبَّاعُ - رنگنے

والا۔ جھوٹا۔

الْأَصْبَعُ - بڑا سیلاب۔ مِنَ الطَّيْرِ وَ

النَّشَاءِ - سفید دم کا پرندہ باکری -

وَمِنَ الْخَيْلِ - وہ گھوڑا جس کی پیشانی

یا اطراف کان سفید ہوں۔ مَوْنَتْ - صَبَّعًا

جر۔ صَبَّعُ -

الصَّبَّعَةُ - رنگائی کا کارخانہ۔

صَبَّعَ (ن) صَبَّعًا - الشَّيْءَ عَنْهُ - روکنا

باز رکھنا۔ دوسری طرف پھیر دینا۔ المقام

الْكُفَّيْنِ - جواری کا پانسہ کو ہاتھ میں

لے کر پھینکنے کے لیے درست کرنا۔

الصَّبَّعُ وَالصَّبَّعُ - عَنْهُ - پھر جانا۔

الصَّبَّاعُ - صابن، کلمہ فارسی ہے۔ اس کے

لیے عربی "غاسول" ہے (صَابُونَةُ)

ایک لٹرا۔ صابن بنانے یا بیچنے والا۔

الصَّبَّاعُ وَالصَّبَّاعُ -

الصَّبَّاعُ - ایک قسم کا پودا جس کو صابن

کی طرح استعمال کرتے ہیں۔

الصَّبَّعَةُ - صابن سازی کا کارخانہ۔

صَبَّاعٌ يَصْبُوعُ صَبَّوَةً وَصَبَّوَةً وَصَبَّوَةً

- إِلَيْهِ وَلَهُ - مشتاق ہونا۔

صَبَّاعٌ يَصْبُوعُ صَبَّوَةً وَصَبَّوَةً وَصَبَّوَةً

صَبَّاعٌ - بچپن کی طرف مائل ہونا۔ بچوں

کی خصلت والا ہونا۔ صفت مذکر۔

(صَابٍ) صفت مؤنث (صَابِيَّةٌ)

صَبَّعَتْ صَبَّاعًا وَصَبَّوَةً - الريح -

پروائی ہوا چلنا۔

صَبَّعَ وَأَصْبَى - القوم - پروائی ہوا کا

لگنا۔ أَصْبَى الرَّجُلُ - بچہ والا

ہونا۔ أَصْبَى الشَّيْءُ فَلَانًا - کسی شے

کا کسی کو شوق میں ڈالنا۔

صَبَّعَ يَصْبِي صَبَّاعًا وَاسْتَصْبَى - بچوں

کی طرح کام کرنا۔ صَبَّعَ إِلَيْهِ -

مشتاق ہونا۔ اسْتَصْبَاهُ - بچوں

جیسا سلوک کرنا۔ بچہ سمجھنا۔

صَبَّاعٌ مَصَابَاةٌ - نیرہ مارنا۔ نیرہ کو مارنے

کے لیے جھکانا۔ السيف - تلوار کو

میان میں الٹی طرف کرنا۔ الكلام -

بے قاعدہ بولنا۔

تہ بٹی تَصْبِيًّا وَتَصَابِي تَصَابِيًّا۔ کھیل
 کود کی طرف مائل ہونا۔ المرأة
 عورت کو فریب دینا یا فریفتہ کر لینا۔
 تَصَبًّا۔ الشیء شوق میں ڈالنا۔
 الصَّبَا۔ مص۔ پُر دوائی ہوا۔ اس کے مخالف
 سمت چلنے والی ہوا دَبُّوس ہے۔
 تننیم۔ صَبَوَانٌ وَصَبِيَانٌ۔ ج۔
 صَبَوَاتٌ وَاصْبَاءٌ۔
 الصَّبَا۔ شوق۔ الصَّبَا وَالصَّبَاءُ۔
 بچپن۔
 الصَّبَوَةُ۔ مص۔ بچپن۔
 الصَّبِيُّ۔ بچہ۔ ج۔ صَبِيَانٌ وَصَبِيَانٌ وَ
 صَبَوَانٌ وَصَبَوَاتٌ وَاصْبِيَّةٌ وَ
 صَبِيَّةٌ وَصَبِيَّةٌ وَصَبِيَّةٌ وَ
 صَبَوَةٌ وَاصْبٌ مُنْثٌ صَبِيَّةٌ
 ج۔ صَبَايَا۔ الصَّبِيَّةُ۔ لڑکی۔
 الصَّبِيُّ تملواری دھار پاؤں کا بچہ۔
 الصَّبِيَانِ۔ ٹھڈی کے قریب۔ دائرہ
 کے کنارے۔
 الصَّبِيَّةُ وَالْاَصْبِيَّةُ۔ چھوٹے لڑکے۔
 الصَّابِيَّةُ۔ شمال مشرقی ہوا۔
 صَنَّةُ (ن) صَنَّا۔ زور سے دھکیلنا۔ ہاتھ
 سے مارنا۔ اُکھلام اوبد اھیٹ۔
 کسی پر تھمت لگانا یا کسی پر مصیبت
 ڈالنا۔
 صَاتَهُ مُصَاتَةً وَصَتَانًا۔ کسی سے
 جھگڑنا۔
 تَصَاتَ۔ القوم۔ آپس میں جھگڑنا۔ لڑنا۔
 الصَّتُ وَالصَّتُّ وَالصُّتَّةُ۔ جماعت۔
 الصِّتُّ وَالصُّتَّةُ۔ ضد۔ ہٹ۔
 لَصَّتْ درپے۔ کہتے ہیں۔ "هُوَ يَصْتِتُهُ"
 یعنی وہ اس کا درپے ہے۔ لَصَّتْ
 جماعت۔ آواز، شور۔
 المَصِيَّتُ۔ کاموں میں مستعد و چست۔
 صَتَّعَهُ (ن) صَتَّعًا۔ بچھاڑنا۔ ۵۔

کسی کا قصد کرنا۔ تَصَتَّعَ۔ کسی
 کام میں تردد کرنا۔
 الصَّتْعُ۔ قوی نوجوان۔ گور خسر۔
 صَتَّعَ۔ الشیء۔ چیز کو مکمل کرنا۔
 تَصَتَّعَ۔ تیز دوڑنا۔
 الصَّنْعُ وَالصَّنْعَةُ۔ سخت مضبوط۔
 خوب مضبوط۔
 الصَّنْمَةُ وَالصَّنْمَةُ۔ سخت چٹان۔
 المَصْتَمُ۔ مفع۔ غیر نافذ گلی یا وادی۔
 صَبْرَن (ن) صَبْرًا۔ لوہے کو لوہے پر مارنے
 سے ان میں سے آواز کا نکلنا۔
 الصُّبْبُجُ وَالصُّبْبِيَّةُ۔ لوہے پر لوہے
 کے پڑنے کی جھنجھکار۔
 صَدْرُ (ن) صَدْرًا وَصَدْرًا وَصَحَاخًا۔
 تندرست ہونا۔ الشیء۔ چیز کا ہر
 عیب سے بری اور سالم ہونا۔ الخَبْرُ
 خبر کا مطابق واقع کے ثابت ہونا۔ صفت
 (صَحِيحٌ وَصَحَاخٌ)
 صَحَّتْ۔ المریض۔ بیمار کی بیماری کو دور کرنا۔
 الکتاب۔ کتاب کی غلطی کو ٹھیک
 کرنا۔
 اصْحَحَ اصْحَاخًا۔ کسی کو تندرست کرنا یا
 پانا۔ مرض کو زائل کرنا۔ اصْحَحَ الرَّجُلُ
 آدمی کے بال بچوں یا اس کے مویشی کا
 تندرست ہونا۔
 تَصَحَّحَ۔ بلکہ کسی چیز سے علاج کرنا۔
 اسْتَصَحَّحَ۔ مِنْ مَرَضِهِ۔ بیماری سے
 تندرست ہونا۔ الکلام۔ کلام کو
 صحیح پانا۔
 الوَحْجَةُ۔ تندرستی۔ الصَّحَاخُ۔ مِنْ
 الطَّرِيقِ۔ دشوار راستہ۔
 الصَّحِيحُ۔ تندرست۔ عیب سے پاک۔ قابل
 اعتماد۔ اصْحَاخًا وَصَحَاخًا وَاصْحَحَ
 وَصَحَاخًا۔
 المَصْحَرُ۔ صحت کی جگہ۔

المَصْحَرَةُ وَالْمَصْحَرَةُ۔ صحت بخشنے
 والی۔ صحت قائم رکھنے والی۔ کہتے ہیں۔
 الصَّوْمُ مَصْحَرَةٌ۔ روزہ تندرستی کا
 باعث ہے۔ اَرْضٌ مَصْحَرَةٌ۔
 وبائی امراض سے پاک زمین یا وہ مقام جہاں
 بیماریاں کم پیدا ہوتی ہیں۔
 مَحْبَبَةٌ مَحْبَبَةٌ وَصَحَابَةٌ وَصَحَابَةٌ وَ
 صَاحِبَةٌ مَصَاحِبَةٌ۔ ساتھی ہونا۔ دوستی
 کرنا۔ ساتھ زندگی گزارنا۔
 صَحَبَ (ن) صَحْبًا۔ المَذْبُوحُ۔ کھال
 کھینچنا۔
 اصْحَبَ۔ الرجلُ۔ ساتھی والا ہونا۔ بیٹے
 کا بالغ ہو کر اپنے مثل ہونا۔ بدقت تمام
 میطع و فرمانبردار ہونا۔ الماءُ۔ پانی کا
 کاٹی والا ہونا۔ فَلَانًا۔ محفوظ رکھنا
 ۵۔ عَنْ كَذَا۔ منع کرنا۔ روکنا۔
 ۵۔ الشیء۔ ساتھ کر دینا۔ اصْحَبَ
 الذِّقُّ۔ مشک پر بال چھوڑ دینا۔
 تَصَحَّبَ۔ مِنْهُ۔ شرم کرنا۔ فَلَانًا مَا
 يَتَصَحَّبُ مِنْ شَيْءٍ۔ فلان شخص کسی
 چیز سے نہیں بچتا۔ نہ شرماتا۔
 اصْطَحَبَ۔ فَلَانًا۔ حفاظت کرنا۔
 اصْطَحَبُوا۔ ایک دوسرے کے ہمراہ
 ہونا۔ ایک دوسرے کا ساتھی ہونا۔
 اسْتَصْحَبَهُ۔ ساتھی بنا۔ ساتھی بننے کے
 لیے کتا ساتھی بنانا۔ اسْتَصْحَبَهُ الشیءُ
 کسی چیز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے
 کہنا۔ الشیءُ کسی چیز کو ساتھ کر دینا۔
 الصَّاحِبُ۔ فَا۔ ساتھی، ساتھ زندگی گزارنے
 والا۔ مالک۔ گورنر۔ وزیر۔ صاحبِ حاکم
 حاکم حاکم۔ صَاحَ ترخیم صاحب کی۔
 ج۔ مَحَبٌّ وَاصْحَابٌ وَصَحْبَةٌ وَ
 مَحَابٌّ وَصَحْبَانٌ وَصَحَابَةٌ وَ
 مَحَابَّةٌ۔ اور اصْحَابُ کی جمع
 اصْحَابُ۔

الصَّاحِبَةُ: مؤنث الصَّاحِبِ - بیوی - جر۔
 صَاحِبَاتٌ وَصَوَاحِبٌ -
 الصَّحَابَةُ: وہ بزرگ حضرات جن کو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کی
 صحبت نصیب ہوئی ہو۔ اور ایمان
 لائے ہوں، پھر ایمان ہی پر ان کا خاتمہ
 بھی ہوا ہو۔
 الصَّحَابِيُّ: صحابہ کی طرف منسوب - ایک
 صحابی۔
 الْمُصَاحِبُ: فـا۔ ساتھ رہنے والا۔ دشواری
 مطیع و فرمانبردار ہونے والا۔
 الْمُصْحَبُ: مفع۔ وہ پاگل ہوا اپنے دل سے
 باتیں کرے۔ عَوْدُ مُصْحَبٍ - وہ
 لکڑی جس کا پھلکا پھیلنا گیا ہو۔
 أَدِيمُ مُصْحَبٍ - وہ چمڑا جس پر
 سے بال دور نہ کیے جائیں۔
 الْمُصْحَبُ وَالْمُصْحَابُ: تابع ذلیل۔
 أَدِيمُ مُصْحَبٍ - جس چمڑے پر
 بال ہوں۔
 الْمُصْحُوبُ: مفع۔ أَدِيمُ مُصْحُوبٍ -
 وہ چمڑا جس پر سے بال نہ اکھڑے
 گئے ہوں۔ عَوْدُ مُصْحُوبٍ - وہ لکڑی
 جس کا پھلکا نہ اتارا گیا ہو۔ لَذْهَبُ
 مُصْحُوبًا وَمُصْحَابًا صَیْحُ سَالِمٍ جَاؤُ -
 (صَحْرًا) صَحْرًا - الدِّين - دودھ
 ابالنا۔ صَحْرَتُهُ الشَّمْسُ - دھوپ کا
 کسی کے دامع کو تکلیف پہنچانا۔
 صَحْرَدَفٌ، صَحِيرًا وَصَحَارًا -
 الحدار گدھے کا زور سے رنگنا۔
 صَحْرَدَسٌ، صَحْرًا - سرخی مائل ٹیالہ رنگ
 ہونا۔ صَفَتُ - (أَصْحَرُ) مؤنث
 صَحْرَاءُ - جر۔ صَحْرٌ - رنگ الغَوْقُ
 أَصْحَرُ - صواکی طرف نکنا - المكان -
 جگہ کا وسیع و کشادہ ہونا - الامر
 وَا بَاؤْمَر - ظاہر ہونا - الرجل -

کانا ہونا۔
 اصْحَارًا صَحِيرًا - سرخی مائل ٹیالے
 رنگ والا ہونا۔
 الصَّحْرَاءُ - بیابان جس میں نبات نہ ہو۔
 جر۔ صَحَارَى وَصَحَارٌ وَصَحَارَى
 وَصَحَارَاتٌ۔
 الصَّحِيرَةُ - ابا ہوا دودھ جس میں گھی اور
 آٹا ملایا جائے۔
 الْمُصْحَرُ - اپنے مقابل سے بیابان میں لڑنے
 والا اور دھوکا نہ دینے والا۔
 الْمُصْحَرُ - شیر۔
 صَحْصَحَ - الامر - ظاہر ہونا۔
 الصَّحْصَحُ وَالصَّحْصَاةُ وَالصَّحْصَاةُ
 نباتات سے خالی ہموار زمین - جر
 صَحَا صَحَ - التَّرَهَاتُ الصَّحَا صَحَ
 وَتَرَهَاتُ الصَّحَا صَحَ - خرافات
 زلیات۔
 الصُّحُصُ وَالصُّحُصُومُ - مِنْ
 الرجال - باریک بین آدمی۔
 الْمُصْحُصُومُ - سچی محبت رکھنے والا۔
 بے ہودہ گو۔
 صَحَفٌ - الکلمة - کلمہ کے پڑھنے یا
 لکھنے میں غلطی کرنا۔
 اصْحَفَ - الکتاب - کتاب میں معیضوں
 کو جمع کرنا۔
 تَصَحَّفَ - القاری - قاری کا پڑھنے میں
 غلطی کرنا۔
 الصَّحْفَةُ - بڑا پھیلا ہوا پیالہ جو پانچ آدمیوں
 کو سیر کرنے کے لیے کافی ہو۔ جر۔
 صَحَافٌ - الصحاف - پانی کے
 چھوٹے چھوٹے چشمے۔
 الصَّحَافَةُ - اخبار نویس - عالم الصحافۃ
 اخبار نویس لوگ۔
 الصَّحِيفَةُ - لکھا ہوا کاغذ - ورق -
 صَحِيفَةُ الْوَجْهِ - چہرے کی کھال - کتے

پس: مِنْ صَحِيفَةٍ وَجْهِكَ - یعنی
 اپنے چہرے کی آبرو کو محفوظ رکھو۔ جر۔
 صَحَائِفٌ وَصُحُفٌ۔
 الصَّحِيفُ - سطح زمین۔
 الصَّحَّافُ - پڑھنے میں غلطی کرنے والا۔
 کتب فروش۔
 الصَّحْفِيُّ - کتابوں کے مطالعہ سے نہ کسی
 استاد سے علم حاصل کرنے والا۔ د۔
 الْمُصْحَفُ، پڑھنے میں خطا کرنی والا۔
 الْمُصْحَفُ وَالْمُصْحَفُ وَالْمُصْحَفُ -
 کتاب - مجلد کتاب - قرآن مجید - جر
 مَصَاحِفٌ۔
 الْمُصْحَفُ - مفع۔ بدلا ہوا۔
 صَحْلٌ دَسٌ، صَحْلًا - صَوْتُهُ - بیٹھی ہوئی
 اور سخت آواز والا ہونا۔ صَفَتٌ (صَحْلٌ
 وَاصَحْلٌ)
 اصْطَحَمَ - الرجل - سیدھا کھڑا ہونا۔
 اصْحَامٌ - اصْحِيْمًا مَّا - النِّبَاتُ - پودہ کا
 بہت برا ہونا۔ سبزی کا زردی سے ملنا۔
 صَفَتٌ (اصْحَمُ) مؤنث صَحْمَاءُ
 رنگ (الصَّحْمَةُ) - الارض - زمین
 کا متغیر نباتات والی ہونا۔ النَّسْعُ -
 کھیتی پر سردی کا اثر ہو کر خشک ہونا
 شروع ہونا۔
 صَحْنَةُ (ف) صَحْنًا - مارنا - صَحْنُهُ بِرَجْلِهِ -
 پاؤں سے مارنا۔ الرجل - کسی کو
 پیالہ میں کچھ دینا - كُدَيْنَاؤًا - کسی
 کو دینا رو دینا - بَيْنَهُمْ - اصلاح
 کرنا۔
 الصَّحْنُ - چھوٹا پیالہ - بڑا پیالہ - گھر کا اندرونی
 حصہ، اور اسی سے ہے - خُوسٌ
 وَاسِعُ الصَّحْنِ - صَحْنُ الدَّائِرِ -
 گھر کا صحن - الصَّحْنُ مِنَ الْأَرْضِ
 ہموار زمین - جر۔ صَحْنٌ -
 الصَّحْنَانِ - جھانجھ، ایک قسم کا باجا۔

صَحْبًا - الْأَذْنَانِ - کانوں کے اندرونی حصے۔
 فَرْسٌ صَحُونٌ - لات مارنے والا گھوڑا۔
 الصَّحْبِيُّ وَالصَّحْبَاءُ وَالصَّحْبَاءَةُ - نک
 لگی ہوئی چھوٹی مچھلی۔
 الْمَصْحَنَةُ - بڑے پیالہ کے مانند ایک
 برتن۔
 صَحَا يَصْحُو صَحْوًا (ن) وَصَحُوًا وَصَحِي
 يَصْحِي (س) صَحًا وَأَصْحَى لَصَحَاءٌ
 - الیوم - دن کا بے بادل والا ہونا۔
 صَفَتْ (صَحَوُ وَصَارَ وَصُفِحَ)
 - السَّكْرَانِ - نشہ اتر جانا۔
 الرَّجُلُ يَجْهِي كِي جِهَاتٍ كُوْجْهَوْنَ
 بَاطِلٍ كُوْجْهَوْنَ - افاقہ پانا۔ صفت
 (صَارَ) ج - صَاوُونَ وَصَحَاءُ
 مُؤَنَّث - صَاحِيَةٌ ج - صَاحِيَاتُ
 وَصَوَارِج -
 أَصْحَاءُ - ہوش میں لانا۔ افاقہ دینا۔
 الصَّحْوُ - بے ابر صاف دن۔
 الْمَصْحَاةُ - افاقہ کا سبب۔ الْمَصْحَاةُ
 پانی پینے کا پیالہ۔
 صَحْمٌ (ن) صَحْلًا - الْحَدِيدُ بِالْحَدِيدِ
 لوہے پر لوہے کو مارنا۔ الصوتُ
 الْأَذْنُ - آواز کا کان کو ہسرا کر
 دینا۔ (صَحًا وَصَحِيحًا) الْحَدِيدُ
 لوہے پر سخت چیز مارنے سے لوہے
 کا پھینا۔ لَحْدِيْثَةٌ - بات کے لیے
 کان لگانا۔
 الصَّخَّةُ - اسم مرقہ۔ باری۔ ر۔ وَالصَّخَّةُ
 وَالصَّخِيخُ - پتھر یا لوہے کی آواز۔
 الصَّخِيخُ - ڈرے ہوئے کوئے کی آواز۔
 الصَّخَاةُ - ہرا کر دینے والی سخت
 پیچ۔ مصیبت۔ قیامت۔
 صَخْبٌ (س) صَخْبًا - چھینا۔ شور مچانا۔
 صَاحِبُهُ مَصَاحِبَةٌ - ایک دوسرے
 پر شور مچانا۔

تَصَاخَبَ - الْقَوْمُ - باہم شور کرنا۔ اور
 ایک دوسرے کو مارنا۔
 اصْطَلَخَتِ - الطَّيْرُ وَالصَّفَادُ ع -
 پرندوں یا مینڈکوں کا مخلوط آوازیں
 کرنا۔
 الصَّخْبُ - مص - شور۔
 الصَّاحِبُ وَالصَّغْبُ وَالصَّغَابُ وَ
 الصَّغُوبُ وَالصَّغْبَانِ (اخر کی
 جمع صَغْبَانٌ) چلانے والا۔ شور
 مچانے والا۔ مؤنث (صَخْبَةٌ وَ
 صَخْبَةٌ وَصَغَابَةٌ وَصَغُوبٌ وَ
 صَغْبِي)
 صَخَدَ (س) صَخَدًا وَصَخَدَانًا - الیوم -
 دن کا سخت گرم ہونا۔
 صَخَدْتُ (ن) صَخَدًا - الشَّمْسُ
 جلانا۔ الصَّخَرُ - لٹورے کا آواز کرنا۔
 صَخَدَ (ن) صَخَوْدًا - الید - کان لگانا۔
 اصْخَدَ - الْحَرُّ - گرمی کا سخت تیز ہونا۔
 - الرجلُ - گرمی میں داخل ہونا۔
 الصَّخَرُ - گرگٹ کا دھوپ کھانا۔
 الصَّاحِدَةُ - دوپہر۔
 الصَّخَدَانُ وَالصَّخَدَانُ - سخت گرم
 دن۔ صَيَّخَدُ - الشَّمْسُ - چشمہ
 آفتاب۔ هَاجِرَةٌ صَيَّخُوْدُ -
 سخت گرم دوپہر۔ صَيَّخِيْدُ -
 صَيَّخِيْدُ الْحَرِّ - گرمی کی تیزی۔
 کہتے ہیں: أَقْبَلْتُ صَيَّخِيْدُ
 الْحَرِّ - گرمی کی تیزی و سختی آگئی۔
 الْمَصْخَدَةُ - دوپہر جہر مَصَاحِدُ
 الْمَصْطَاحِدُ - سیدھا کھڑا ہونے والا۔
 صَخْرَةٌ - مطیع کرنا۔
 اصْخَرُ - المکانُ - کسی جگہ کا بہت
 چٹانوں والا ہونا۔ صفت (مَصْخَرٌ)
 الصَّخْرَةُ وَالصَّخْرَةُ - چٹان۔ جہر۔
 صَخْرٌ وَصَخْرٌ وَصَخْوٌ وَ

صُخْرَةٌ وَصَخْرَاتٌ - کہتے ہیں۔
 "فَلَانٌ صَخْرَةٌ الْوَادِي" - یعنی فلاں
 بہت مستقل ہے۔
 الصَّخْرُ - مِنَ الْأَمْكِنَةِ - چٹانی جگہ۔
 "هُوَ صَخْرٌ الْوَجْهِ" - او صَخْرُ الْوَجْهِ
 وہ بے حیا ہے۔
 الصَّاحِرُ - لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز۔
 الصَّاحِرَةُ - پانی پینے کے لیے مٹی کا برتن۔
 صَخَفَ (ن) صَخْفًا - الارض - زمین کھودنا۔
 الْمَصْخَفَةُ - کھودنے کا آلہ۔ کدال۔
 بھاؤڑہ۔ جہر۔ مَصَاحِفُ -
 صَخَشَتُ (ن) صَخَشًا - الشَّمْسُ - دھوپ
 کا کسی کو جھلس دینا۔
 اصْطَلَخَ - الرجلُ - سیدھا کھڑا ہونا
 صَخِي يَصْحِي - الثوبُ - کپڑے کا میلا
 کچھلا ہونا۔ صفت (صَخِي)
 الصَّخَاةُ - میل کھیل، ایک قسم کی سبزی۔
 صَدَّ (ن) صَدًّا - عَنِ كَذَا - ہٹانا۔
 منع کرنا۔
 صَدَّ (ن) ض) صَدًّا وَصُدُّوا - عَنْهُ -
 اعراض کرنا۔ مائل ہونا۔ صفت (صَادٌ)
 جہر۔ صَدَّادٌ - مؤنث۔ صَادَّةٌ - جہر
 صَوَادٌ وَصَدَّادٌ -
 صَدَّ (ن) ض) صَدِيدًا - مِنَ الشَّيْءِ -
 چھیننا۔ چلانا۔
 صَادَّةٌ - مدافعت کرنا۔
 صَدَّدَ - تَالِي بَجَانَا - الْجَرْحُ - زخم کا
 پیپ دینا۔
 اصْدَدَا - عَنِ كَذَا - منع کرنا۔ روکنا۔
 الْجَرْحُ - زخم کا پیپ دینا یا اس کی
 پیپ کا ہٹنا۔
 تَصَدَّدَ - كَهْ - ورپے ہونا۔
 اصْطَدَّتْ - الْمَرَاةُ - عورت کا
 پردہ کرنا۔
 الصَّدُّ ه - (وَالصَّدُّ) پہاڑ بلند بادل

واہی کا کنارہ۔ ج۔ اَصْدَاوُصْدُوْد۔
 الصَّدَد۔ قعد، کتے میں "هُوَ صَدَدُكَ"
 وہ تمہارا مقصود ہے۔ ارادہ۔ درپے،
 میلان کہتے ہیں "لَا قِيَمَ صَدَدُكَ"
 یعنی میں تیری کبھی درست کروں گا کنارہ
 قریب، سامنے، کتے میں "دَارِي
 صَدَدُ دَارِي"۔ میرا گھراس کے گھر
 کے سامنے یا قریب ہے۔
 الصَّدَاد۔ پردہ۔ ج۔ اَصْدَقُ
 الصَّدُوْد۔ روکنے والا۔ چھوٹی کرتی۔
 الصَّدِيدُ۔ ہ۔ کچھو۔ خون ملی پیپ۔
 صَدِيدُ الْفِضَّةِ۔ پگھل ہوئی چاندی
 الصَّدَادُ۔ سانپ، چھپکلی۔ پانی کی طرف
 جانے والا راستہ۔ ج۔ صَدَائِدُ۔
 صَدِيٌّ (س) صَدَأُ وَصَدُوْرُكَ صَدَاةٌ
 — الحَدِيدُ۔ لوہے کا رنگ آلود ہونا
 صفت (صَدِيٌّ) مَوْنُثٌ صَدَّ شَيْءٌ
 — الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا رنگ میں رنگ
 کے مشابہ ہونا۔ رنگاری رنگ کا ہونا۔
 صفت (اَصْدَأُ) مَوْنُثٌ صَدَاءٌ۔
 — الرجلُ۔ سیدھا کھڑا ہو کر دیکھنا۔
 صَدَأَ رَجُلٌ صَدَأَ وَصَدَأَ وَتَصَدَّ شَيْءٌ
 — الشَّيْءُ۔ رنگ دور کرنا۔ المَرَاةُ۔
 آئینہ کو صاف کرنا
 اَصْدَأُ ج۔ مورچہ والا جیسا بنانا۔
 تَصَدَّأُ۔ لہ۔ درپے ہونا۔
 الصَّدَأُ۔ رنگ۔ مورچہ۔ رجلٌ
 صَدَأُ۔ نازک جسم آدمی۔
 الصَّدِيٌّ۔ رنگ لگی ہوئی چیز۔ الصَّدَأُ ج
 رنگاری رنگ۔
 صَدَحَ رَجُلٌ صَدَحَا وَصَدَحَا
 الرجلُ او الطائرُ آدمی یا پرندہ کا
 بلند آوازی سے مُر نکالنا۔ صفت۔
 رَصَادٌ ج وَصْدَانٌ ج وَصِيدٌ ج وَ
 صَبْدٌ ج وَصْدُوْدٌ ج وَصَدَةٌ ج وَ

مَصْدَانٌ ج
 الصَّدَحُ۔ علم، نشان، غالی مکان، پتھر کی
 پہاڑی۔ شے صَدَحَ۔ کالی چیز۔
 ج۔ صَدَحَانُ۔
 الصَّدَحَةُ وَالصَّدْحَةُ وَالصَّدْحَةُ
 تعوید کے طور پر استعمال کیا جانے
 والا نمک یا نمہ۔
 صَدَرْدَنُ صَدَرًا وَمَصْدَرًا۔
 عَنِ الْمَكَانِ وَعَنِ الْمَاءِ۔ واپس پھرنا
 — اِلَى الْمَكَانِ۔ جانا۔ الرجلُ عَنِ
 كَذَا۔ واپس کرنا۔ (ر) صَدَاوْرًا
 الْأَمْرُ۔ پیدا ہونا۔ واقع ہونا۔ مِنْهُ
 ظاہر ہونا۔ عَنِہُ پیدا ہونا۔ نتیجہ
 نکلتا۔ صَدَرَةُ صَدَرًا۔ سینہ
 پر مارنا۔
 صَدَرَ۔ سینہ میں درد ہونا۔ صفت۔
 (مَصْدُوْرُ)
 صَدَرًا ج۔ واپس کرنا آگے بڑھا کر صَدْرُ
 بَنَانَا۔ صَدَرَ الْكِتَابُ بَكَذَا۔
 کتاب میں دیا چر لگانا۔ الْفَرْسُ۔
 گھوڑے کا آگے بڑھنا۔
 اَصْدَرَ ج۔ عَنِ كَذَا۔ واپس کرنا۔
 اَصْدَرَ الْأَمْرُ ظَاهِرًا۔ الرجلُ
 لے جانا۔ خَلَاتُ يُوْسُفَ دَوْلَا
 يُصْدِرُ۔ فلاں کام شروع کرتا ہے مگر
 پورا کر کے نہیں چھوڑتا۔
 صَادَرَ ج۔ عَلَى الشَّيْءِ وَبِهِ۔ اصرار کے
 ساتھ مطالبہ کرنا۔
 تَصَدَّرَ۔ صدر مجلس میں بیٹھنا۔ تَصَدَّرَ
 الْمَجْلِسُ۔ مجلس میں سینہ نکال کر بیٹھنا۔
 — الْفَرْسُ۔ گھوڑے کا آگے سینہ
 نکالنا۔
 الصَّدَرُ۔ ہ۔ ہر چیز کا سامنے سے اوپر
 کا حصہ۔ سیمہ۔ ہر چیز کا شروع۔ ہر چیز
 کا ٹکڑا۔ صَدَرُ الْقَوْمِ۔ قوم کا رئیس۔

الصَّدْرُ الْأَعْظَمُ۔ وزیر اعظم۔
 ج۔ صُدُوْرُ۔ نباتُ الصَّدُوْرِ
 افکار۔ ذَاتُ الصَّدْرِ۔ سینہ کی
 ایک بیماری۔ صَدُوْرُ الْوَادِي۔
 واہی کی اونچی اور سامنے کی جگہیں۔
 بَعِيدُ الصَّدْرِ۔ غیر مہربان۔
 الصَّدَرُ۔ پانی سے واپسی۔ مسافر کی واپسی۔
 الصَّادِسُ۔ فا۔ واپس ہونے والا۔ اس
 کا زیادہ تر اطلاق پانی سے واپس
 ہونے پر ہے۔ اس کا مقابلہ دَاسِدُ
 ہے۔ یعنی پانی پر آنے والا۔ "صَالَهُ
 صَادِرٌ وَلَا دَاسِدٌ" اس کے پاس
 کچھ نہیں۔
 الصَّدَرَةُ ج۔ مِنَ الْإِنْسَانِ۔ سینہ یا
 سینہ کا بالائی حصہ۔
 الصَّدَرَةُ ج۔ سینہ کو ڈھانکنے والا کپڑا مثلاً
 وَاسَكْتُ۔ صَدْرِيَّةٌ۔ واسکٹ۔
 التَّصْدِيرُ۔ اونٹ کا تنگ۔
 الصَّدَارُ۔ صدی۔ اونٹ کے سینہ کا نشان۔
 الصَّدَارَةُ ج۔ تقدم۔ وزیر اعظم کا عہدہ۔
 وَالصَّدِيرَةُ ج۔ صَدَارَةُ سِينِ
 کا اوپر کا حصہ۔
 الْأَصْدَرُ۔ مضبوط بڑے سینہ والا۔
 الْأَصْدَارُ ج۔ کنپٹیوں کی دوڑ گئیں۔
 الْمُصْدَرُ۔ جلے صدر۔ ج۔ مَصَادِرُ۔
 الْمُصْدِرُ۔ فا۔ کاموں کا پورا کرنے والا۔
 الْمُصْدَرُ۔ چوڑے سینہ والا مضبوط سینہ والا
 آگے بڑھنے والا گھوڑا بشیر، بھیڑیا۔
 صَدَحَ رَجُلٌ صَدَحَا۔ اِلَى كَذَا مَعَالٍ
 ہونا۔
 صَدَحَ رَجُلٌ صَدَحَا۔ الشَّيْءُ۔ پھاڑنا۔
 مگر جانہ کرنا۔ الْقَوْمُ۔ متفرق
 کرنا۔ الْأَمْرُ ظَاهِرًا۔ بِالْحَقِّ
 حق کا کھلے طور سے اظہار کرنا۔ فِي
 الْأَمْرِ۔ کام کر گزرنا۔ الْأَمْرُ

بالحق۔ حق کا فیصلہ کرنا۔ فلاناً۔
 قصہ کرنا۔ صدعہ عن کذا۔
 روکنا۔ التصدع عبور کرنا۔ فی
 المكان۔ گزرنا۔ اللیل۔ رات
 میں چلنا۔
 صدع وصدع۔ دوسرا حق ہونا۔ صفت
 صدع۔
 صدع۔ الشیء۔ پھاڑنا۔ الفلاک
 اوالشہر۔ بیابان یا نہر کو عبور کرنا۔
 تصدع۔ القوم۔ قوم کا متفرق ہونا۔
 تصدعت الارض بفدان۔ وہ
 شخص زمین میں کہیں غائب ہو گیا یعنی بھاگ
 گیا۔ تصدع و انصدع۔ الشیء
 پھٹنا۔ انصدع الصبح۔ صبح
 کا روشن ہونا۔
 الصادع۔ فاقاضی۔ جبل صاعد۔
 لمبائی میں پھیلا ہوا پہاڑ۔ صبیح
 صاعد۔ روشن صبح۔
 الصدع۔ دھ۔ سخت چیز کی دراڑ۔ پھٹن۔
 ج۔ صدع۔ د۔ والصدع۔
 چھریسے بدن کا آدمی مضبوط جوان۔
 صدع الحدید۔ لوہے کا زنگ۔
 الناس علیہم صدع واحد۔
 لوگ ان کی عداوت پر متفق ہیں۔
 الصدع۔ لوگوں کی جماعت۔ دو حصوں
 میں چری ہوئی چیز کا ایک حصہ۔ رأیت
 بینہم صدعات۔ میں نے ان میں
 خواہشات و آراء میں اختلاف دیکھا۔
 "وَأَصْلَحُوا مَا فِيكُمْ مِنَ الصَّدَعَاتِ"
 اپنے آپس کے اختلافات کو دور کرو
 اور متحد و متفق ہو جاؤ۔
 الصدعۃ۔ ج۔ صدع و الصدیع۔
 ج۔ صدع۔ بکریوں کا ریوڑ۔ دو برابر
 میں بٹی ہوئی چیز کا نصف۔ الصدیع
 دوسرا والا۔ صبح۔ پھٹا ہوا کپڑا۔ زرہ کے

نیچے پنسنے کا کپڑا۔
 الصداع۔ دوسر۔ التصداع۔ تفریق۔
 المصدع۔ سخت زمین میں نرم راستہ۔ ج
 مصادع۔
 المصدع۔ چوڑا پھل۔ خلیب مصدع
 بلیغ خطیب۔
 صدعۃ دف۔ صدعۃ۔ عن الامر۔
 واپس کرنا۔ ہٹانا۔ سیدھا کرنا۔
 صدعۃ دف۔ صدعۃ۔ کندھے سے
 کندھا ملا کر چلنا۔
 صدع دن۔ صدعۃ و صدعۃ۔ الى
 الشیء۔ مائل ہونا۔
 صدع رک۔ صدعۃ۔ الدجل۔
 کمزور ہونا۔
 صدع۔ کینٹی کے درد والا ہونا۔
 صدعۃ۔ شانے سے شانہ ملا کر چلنے
 میں مقابلہ کرنا۔
 الصدع۔ کینٹی۔ کینٹی پر ٹکٹنے والے بال۔
 ج۔ اصداغ۔
 الصدع۔ طیر ہائیں۔ کچی۔
 الصداغ۔ کینٹی پر نشان۔
 الصدیع۔ کمزور ناتوان تین دن کا بچہ۔
 الاصدغان۔ کینٹی کی دو رگیں۔
 المصدعۃ۔ تکیہ۔
 صدع دن ض۔ صدعۃ و صدعۃ۔
 پھر جانا۔
 صدع رض۔ صدعۃ۔ عنہ۔ اعراض
 کرنا۔ فلاناً پھیر دینا۔ ہٹانا۔
 اصداقۃ۔ عنہ پھیر دینا۔ ہٹا دینا۔
 صاقدۃ۔ ارادہ سے یا اتفاقیہ ملاقات کرنا۔
 تصادقا۔ باہم ملاقات کرنا۔
 تصدع۔ عن۔ اعراض کرنا۔
 الصدع۔ سیپی۔ واحد صدقۃ۔
 ج۔ اصداق۔ صدقۃ الاذن۔
 کان کا جوف۔ الصدع فی

الخیل۔ گھوڑوں کی رانوں کے درمیان
 کی نزدیکی اور سموں کا بعد الصدق
 والصدقۃ۔ جانب۔ کنارہ۔
 الصدق والصدق والصدق
 والصدق۔ پہاڑ کا کنارہ۔
 الاصداق۔ سمندر کی موجیں۔ الصدقۃ
 اتفاقی ملاقات۔
 الصدوق۔ کندہ ذہن۔ بہت اعراض
 کرنے والا۔
 المصدوق۔ مغم۔ چھپا ہوا۔
 صدق دن۔ صدقا و صدقا۔ و
 مصدوقۃ و تصدقا۔ سچ بولنا۔
 فی وعدۃ و وعدۃ۔ پورا کرنا۔
 فی الحملۃ۔ حملہ میں بہادری
 دکھانا۔ الصدیقۃ الموحبۃ
 بے لوث نصیحت یا محبت کرنا۔ و
 الحدیث۔ سچی خبر دینا۔
 صدقۃ۔ سچا بھڑانا۔ سچا سمجھنا۔
 صادقۃ صدقا و مصداقۃ۔ دوست
 بننا۔ صادقۃ المودۃ۔ خالص
 دوستی کرنا۔
 اصداق۔ الابنۃ۔ بیٹی کا مہر مقرر کرنا۔
 تصداق۔ خیرات دینا۔ علی الفقیر
 بکذا۔ خیرات کے طور پر دینا۔
 تصادقا۔ ایک دوسرے سے دوستی
 کرنا۔ تصادقا الحدیث او
 المودۃ و فیہا۔ ایک دوسرے سے
 سچی بات کرنا اور سچی دوستی رکھنا۔
 الصدق رہی سیدھا ٹھوس نیزہ۔ کامل
 شے۔ ج۔ صدق و صدق و
 صدقون۔ مؤنث صدقۃ۔ ج
 صدقات۔
 الصدق۔ سچ۔ فضیلت۔ صلاح۔ سختی
 مضبوطی۔ رجل صدق۔ بڑا سچا
 آدمی۔



الصَّدَقَةُ - خیرات - ج - صَدَقَاتٌ -
الصَّدَقَةُ مَا لَصَّدَقَهُ وَالصَّدَقَةُ
وَالصَّدَقَةُ - مهر - ج - أَصْدَقْتُ
وَصَدَّقْتُ -

الصَّدَاقَةُ - سہمی دوستی -
الصَّادِقُ - فَا - تَمْرُ صَادِقُ الْحَلَاوَةِ -
بہت شیریں کھجور - نَبِيَّةٌ صَادِقَةٌ
خالص نیت - حَمَلَةٌ صَادِقَةٌ
سخت حملہ -

الصَّدُوقُ - ہمیشہ سچ بولنے والا - ج -
صَدَّقْتُ وَصَدَّقْتُ -

الصَّدِيقُ - پیارا دوست - ج - أَصْدِقَاءُ
وَصَدِّقَاءُ وَصَدِّقَاتٌ - وجہ
أَصَادِقِي - مونس - صَدِيقَةٌ -

الصَّدِيقِيُّ - ج - صَدِّيقُونَ - بہت سچ
بولنے والا - سچائی میں کامل - عمل سے
اپنی بات کو سچا کر دکھانے والا - بڑا
نیک - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکرؓ کا لقب -
الْمِصْدَاقُ - کسی کی سچائی کا گواہ - ذُو
مِصْدَقٍ - بہادر جنگ جو تیز دھڑنے
والا -

الْمِصْدَوقَةُ - (دھ) سچائی -
صَدَمَهُ (رض) صَدَمًا - دفع کرنا - ہٹانا
آپڑنا -

صَادَمَهُ مُصَادَمَةً - مارنا -
إِصْطَدَمَ وَتَصَادَمَ - الفایسان -
ایک دوسرے کو مارنا - ایک دوسرے
کے مزاحم ہونا -

الصَّدَامُ - جانوروں کے سر کی ایک بیماری
کا نام -

الصَّدْمَةُ - اسم مرہ - ایک دفعہ - صَرَعَهُ
بِصَدْمَةٍ - ایک ہی دفعہ میں
بچھاڑ دیا - أَعْطَاكَ دُنْتِي شَهْرَيْنِ
صَدْمَةً - دو مہینہ کی روزی ایک

ای مرتبہ دے دی -
الصَّدَمَتَانِ وَالصَّدَمَتَانِ - پیشانی کے
دونوں جانب -

الْأَصْدَمُ - وہ شخص جس کی پیشانی کے
دونوں جانب سے بال اڑ گئے ہوں -

رَجُلٌ مِصْدَمٌ - جنگجو بہادر آدمی -
صَدَّ الصَّدُّ وَصَدَّدًا وَصَدِّي -

بیدار - دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا -
صَدِّي يَصْدِي صَدِّي - سخت پیٹنا

ہونا - صفت - رَصِدًا وَصَادٍ وَ
صَدْيَانٍ - مونس - صَدِّيَا وَ

صَادِيَةً - ج - صَوَادٍ - صَدِي -
الشیء - لمبا ہونا -

صَادَةً مُصَادَةً - مقابلہ کرنا - مدارت
کرنا -

صَدِّي تَصْدِيَةً - بیدار ہونا - دونوں
ہاتھوں سے تالی بجانا -

أَصْدَى - إَصْدَاءٌ - مرنا - الجبل -
پھاڑ کا گونجنا - پھاڑ سے آواز
بازگشت آنا -

تَصْدَى - لہ - درپے ہونا سامنے آنا -
لِلْأَمْرِ - کسی معاملہ کے لیے متوجہ ہونا -

الصَّدَى - سخت پیاس - آواز بازگشت -
دماغ - انسانی لاش - تعرض - ج -

أَصْدَاءٌ - صَحَّةٌ صَدَاةٌ - اس کی
گوشت خاموش ہوگئی ہے یعنی وہ مر گیا -

أَصَحَّ اللَّهُ صَدَاةً - اللہ اس
کو مار دے -

الصَّدَى - ایک بڑے سر کا آٹو جو تاریک
ویلاں میں رہتا ہے - اس کو ہامہ

بھی کہتے ہیں عربوں کا خیال تھا کہ جس
مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کے

سر سے ایک آٹو پیدا ہوتا ہے جو اس
کے سر پر یہ کرتا رہتا ہے مجھے پلاؤ

مجھے پلاؤ تا آنکہ اس کے قاتل کو قتل

کیا جائے -

صَرَرَنَ صَرًّا - الصُّرَّةُ - پھیلی ہانڈنا -
الذَّارِ أَحَدٌ فِي الصُّرَّةِ - دراہم کو

پھیلی میں رکھنا - الفرس اُذُنُهُ وَ
بِأُذُنِهِ - گھوڑے کا کان کھڑے کرنا -

النَّاقَةُ وَبِالنَّاقَةِ - اونٹنی کے تھن
باندھنا تاکہ اس کا بچہ دودھ نہ پی سکے -

صَرَرَهُ (رض) صَرَرًا وَصَرِيرًا - الشیء -
پھول چوں کرنا - الرجل - زور سے

چلانا - پیاسا ہونا - الْأَذُنُ - کان بھنا -
صُرَّ - النُّبَاتُ - پودہ کو ٹھنڈی ہوا کا مار

جانا - صَرَرَتِ النَّاقَةُ - آگے بڑھنا -
صَرَرَّ - اُذُنُهُ - سننے کے لیے کان

کھڑے کرنا -
صَادَةً مُصَادَةً - علی کذا - مجبور کرنا -

أَصَرَّ - علی الأمر - اپنے ارادہ پر جما رہنا -
برائی اور گناہوں میں اس کا استعمال

زیادہ تر ہے - الْمُسْنَدُ - خوشوں
کا غار نکالنا - الفرس گھوڑے کا

سننے کے لیے کان کھڑے کرنا -
الصُّرَّةُ وَالصُّرَّةُ - ٹھنڈ - رِيحٌ صَرَّةٌ -

سخت ٹھنڈی ہوا یا تیز آواز والی ہوا -
الصُّرَّةُ - زور کی چیخ -

الصُّرَّةُ - شور غل جینچ پکار - لڑائی کی سختی یا
گرمی وغیرہ کی تیزی - ترش روئی - جماعت

تعوید کے ٹہرے -
الصُّرَّةُ - پھیلی - بٹوہ - ج - صُرَّرٌ -

بیکین صُورِي - سخت قسم -
الصُّرَّرُ - بالیاں جو اپنے خسار نکال رہی

ہوں - واحد (صُرَرَكِي)
الصَّا - فَا - گنجان درخت -

الصَّارِعُ - حاجت - پیاس - ج - صَوَارٌ -
الصُّرُورُ وَالصَّارُورُ وَالصُّرُورِيُّ -

الصَّاسُورِيُّ - کنوارہ - جس نے
چ نہ کیا ہو -



الصَّرَائِي - ملاح - ج - صَرَّائِيُون -
 الصَّرَائِي - اونٹنی کے تھن باندھنے کی ڈوری -
 وہ بلند جگہ جہاں پانی نہ چڑھ سکے -
 ج - اصْرَعَة -
 الصَّرَّاس - صَار کا اسم مبالغہ - صَرَّارُ
 اللیل - جھینگر - الصَّرَّارَة -
 سانپ کھا جانے والا ایک قسم کا عقاب -
 الصَّرْبِيَّة - قلی میں رکھے ہوئے دراہم -
 ج - صَرَّائِر -
 المَصَّار - آنتیں -
 المَصْرُور - مفع - بندھا ہوا - قیدی -
 صَرَب (ض) - صَرَبًا - کاٹنا - کمانا - دودھ کو
 ترش بنانا - پیشاب یا دودھ کو روکنا -
 بچہ کا کئی دن پاخانہ نہ کرنا -
 صَرَب (رس) - صَرَبًا - اللبن - دودھ کا
 تھن میں جمع ہو جانا -
 اصْرَب - اَلَيْكُمَا - دینا -
 ترش دودھ کا کھانا یا پینا -
 اصْطَرَب - اللبن في التَّطْبِ - دودھ
 کو ترش کرنے کے لیے برتن میں بھٹوڑا
 بھٹوڑا جمع کرنا -
 اصْرَابَت - الشَّيْءُ - صاف اور چمکنا ہونا -
 الصَّرْبُ والصَّرَب - بہت ترش دودھ -
 سرخ گوند بول کا گوند - واحد صَرْبِيَّةٌ
 وصَرْبِيَّةٌ -
 الصَّرْبُ غریب عربوں کے بھڑکے گھر -
 الصَّرْبُ - ترش دودھ - ج - صَرَبٌ -
 المَصْرُوبُ - مفع - جمع کیا ہوا کھٹا دودھ -
 المَصْرَبُ - وہ برتن جس میں دودھ جمع کیا
 جائے - ج - مَصَّارِبٌ -
 صَرَبَ - الحوض - حوض کو چونا مٹی ملا کر
 بنانا - الحوض بالتَّوَدُّقِ - حوض پر
 چوڑے کی قلعی کرنا -
 الصَّارُوتُ - چونا مٹی ملا ہوا -
 صَرَّبَهُ (د) - صَرَّاحَةً وَصَرُوحَةً -

صاف ہونا - خالص ہونا - واضح ہونا -
 صفت (صَدِيحٌ) - ج - صَرَحَاءُ
 مَوْنُثٌ - صَرِيحَةٌ
 صَرَحَ (ف) - صَرَحًا - الامر - ظاہر کرنا
 واضح کرنا -
 صَرَّحَ - الْمُتَكَلِّمُ - مکالم کا صاف صاف
 کہنا - بے مافی نقیبہ - ظاہر کرنا -
 - الامر - واضح کرنا - الامر -
 واضح ہونا - ظاہر ہونا - متعدی و لازم -
 التَّصَارُّ - دن میں بادل بٹ کر صاف
 دھوپ نکل آنا - التَّصَرُّ - شراب
 کے جھاگ دور ہونا - صَرَّحَتْ
 السَّنَةُ - یعنی کال پڑ گیا اور سختی و تنگی
 کے علاوہ کچھ نہ رہا - صَرَّحَ التَّارِجِي -
 تیر انداز کا نشانہ خطا کرنا - ایک مثل ہے کہ
 صَرَّحَ الْحَقُّ عَنْ مَخْضَةٍ - یعنی حق
 پوشیدگی کے بعد واضح ہو گیا -
 اصْرَحَ - الامر - بیان کرنا - صَرَّاحًا
 واضح کرنا -
 صَارَحَهُ صَرَّاحًا وَمَصَّارَحَةً - صاف
 صاف بیان کرنا - شَقْمَةُ مَصَّارَحَةٍ
 او صَرَّاحًا - یعنی اس نے رُودر رُو
 گالی دی - صَارَحَهُ وَصَرَّحَهُ بَمَا فِي
 نَفْسِهِ - دل کی بات کو ظاہر کر دینا -
 انْصَرَحَ - الْحَقُّ - ظاہر ہونا - بے شک
 ہونا -
 تَصَرَّحَ - الزَّيْدُ عَنِ الْخَمْرِ - شراب
 پر سے جھاگ دور ہونا -
 الصَّرْحُ - مم - محل - ہر بلند عمارت - ج -
 صَرُوحٌ -
 الصَّرْحَةُ - سخت زمین - صَرَّحَهُ
 الدَّارُ - گھر کا صحن - ج - صَرَّحَاتُ -
 الصَّرْحُ وَالصَّرَّاحُ وَالصَّرَّاحُ و
 الصَّرَّاحُ - ہر خالص شے کہتے ہیں -
 کائن صَرَّاحٌ - یعنی اس جس یا مسالہ

میں کوئی ملاوٹ نہیں -
 الصَّرَّاحَةُ وَالصَّرُوحَةُ - خلوص، وضاحت
 الصَّرَّاحِيَّةُ - مِنَ الْخَمْرِ - خالص شراب -
 كَذْبُ صَرَّاحِيَّةٍ - کھانا بھوٹ جس کو
 لوگ مانتے ہوں - الصَّرَّاحِي - ظاہر
 واضح - يَوْمٌ مَصْرُوحٌ وَمُصَرَّحٌ - وہ
 دن جس میں ابر نہ ہو -
 صَرَّحَ (ن) - صَرَّاحًا وَصَرَّيْنَا - زور سے
 چھیڑنا - فریاد کرنا - القوم - فریادری
 کرنا - مدد کرنا -
 اصْرَحَهُ - فریادری کرنا - مدد کرنا -
 تَصَرَّحَ - بتکلف چھیڑنا -
 تَصَارَحَ وَلَا صَطْرَحَ - القوم - ایک
 دوسرے کو چلا کر پکارنا، ایک دوسرے
 سے مدد چاہنا -
 اسْتَصْرَحَ - مدد طلب کرنا -
 الصَّارِخُ - فا - مُرَغ -
 الصَّارِخَةُ - الصَّارِخُ کا مونث - فریاد
 رسی - دادخواہی - دادخواہ کی آواز - تم
 کہتے ہو - تَسْمَعُ صَارِخَةَ الْقَوْمِ -
 میں نے قوم کی دادخواہی کی آواز سنی -
 الصَّارِخُ - بہت چھیڑنے والا - مود -
 الصَّرِيخُ (د) - فریاد رس - دادخواہ - ج -
 صَرَّعَاءُ -
 صَرَّ (رس) - صَرَّاءُ - السَّهْمُ - تیر کا
 نشانہ خطا کرنا - تیر کا نشانہ پر پٹھنا دینا -
 الرجل - آدمی کا سردی برواشت
 کرنے میں مضبوط ہونا - سردی برواشت
 کرنے میں کمزور ہونا دینا - السَّيْقَاءُ
 جھاگ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنا -
 صَرَّ قَلْبِي عَنكَ - میرا دل اس سے
 کھینچ گیا -
 صَرَّ (ن) - صَرَّاءُ وَاصْرَدَ - التَّارِجِي
 السَّهْمُ - تیر انداز کا تیر کو ٹھیک
 نشانہ پر بٹھانا - اصْرَدَ السَّهْمُ تیر

کائنات خطا کرنا۔
 صَرَدَ - الشَّيْءُ مُكَلِّمٌ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ -
 العَقَاءُ - بخشش کم دینا۔ الرجلُ
 تَهَوَّأَ پانی دینا۔
 الصَّرْدُ (دھ) ہر حال میں، پہاڑ کی
 سب سے اونچی جگہ۔ بڑا لشکر سردی
 مَاتَ صَرْدًا - سخت ٹھنڈ سے
 مر گیا۔ جہ۔ صُرُودٌ -
 الصَّرْدُ - بڑا لشکر، بجائے کی کیل جس میں
 نیزہ لگایا جاتا ہے۔
 الصَّارِدُ - فَاسَّهَ صَارِدًا - نفاذ پر
 لگنے والا تیر۔
 الصَّوَارِدُ - سرد ہوائیں۔
 الصَّرْدُ - موٹے سر سفید پیٹ اور سبز
 پیٹ کا ایک پرنڈہ جو چھوٹے پرنڈوں
 کو شکار کرتا ہے۔ لٹورا۔ جہ۔
 صُرْدَانٌ -
 الصُّرْدَانُ - زبان کے نیچے کی دو رگیں۔
 الصَّرْدُ - مِنَ الْخَيْلِ - وہ گھوڑا جس کی
 پیٹہ زمین سے لگ گئی ہو۔ مِنَ
 الرجالِ - سردی برداشت کرنے والا
 یا نہ کرنے والا۔
 الصَّرَادُ وَالصَّرِيدُ - پانی سے خالی
 پتلا بادل۔ كَعْبَةٌ صَرِيدَةٌ -
 سردی کھائی ہوئی بھیر۔ جہ۔ صَرَايِدُ -
 المَصْرَادُ - درخت سے خالی زمین، سردی
 برداشت کرنے والا یا نہ کرنے والا۔
 سَهْمٌ مَصْرَادٌ - نشانہ پر لگنے
 والا تیر۔
 المَصْطَرِدُ - سخت غصہ والا۔
 صَرَصَرَ - الصَّرْدُ أَوْ الصَّقَرُ لُتْرَے یا
 شکرے کا آواز نکالنا۔ الرجلُ
 زور سے چلانا۔ الشَّيْءُ - چیز کے منتشر
 اطراف کو جمع کرنا۔
 الصَّرَصَرُ - مِنَ الْيَوَا حِمٍ - تیز چلنے والی

یا سخت ٹھنڈی ہوا۔ مرع۔ د - و
 الصَّرَصَرُ - جہ۔ صَرَا صِرُ -
 والصَّرَصَرُ - جہ۔ صَرَا صِرُ -
 جہ۔ الصَّرَصَرُ - کشتی۔
 الصَّرَاطُ - راستہ۔ جہ۔ صُرْطُ -
 الصَّرَاطُ - لمبے کانٹے والی تلوار۔
 صَرَعَةُ (دھ) صَرَعًا وَصَرَعًا وَمَصْرَعًا -
 زمین پر گرا دینا۔ الشَّعْرُ وَالْبَابُ
 شعر کو دو مصرعوں اور دروازہ کو دو
 کواڑوں والا بنانا۔
 صُرِعَ - مرگی کی بیماری والا ہونا۔
 صُرِعَ الشَّجَرُ - کاٹ کر ڈالا ہوا
 درخت۔
 صَرَعَةُ زور سے گرنا۔ زور سے
 پھینکا ہوا۔
 صَارَعَهُ صَرَاغًا وَمَصَارَعَةً - کشتی لڑنا۔
 تَصَارَعَ وَاصْطَرَحَ - الرجلانِ - باہم
 کشتی لڑنا۔
 الصَّرَعُ - پھینکانا۔ گرنا۔
 تَصَرَّعَ - لَصَا حَبَهُ - کسی کے آگے
 عاجزی کرنا۔ کہتے ہیں: مَا زِلْتُ
 أَتَصَرَّعُ لَهُ حَتَّى أَجَابَنِي - یعنی
 میں برابر اس سے عاجزی کرتا رہا حتیٰ
 کہ اس نے منظور کر لیا۔
 الصَّرَعُ - مِم - مرگی، مثل، مقابل، قسم۔
 جہ۔ اَصْرَعُ وَصُرُوعٌ - و
 الصَّرَعَانِ - رات و دن، صبح و شام۔
 اتَّيْتُكَ صَرَحِي التَّهَارِ - میں اس
 کے پاس صبح و شام آیا۔ هُوَ دُو
 صَرَعَيْنِ - وہ دو قسم کا ہے، یعنی
 دو رنگ کا ہے۔ تَرَكْتُهُمْ
 صَرَعَيْنِ - میں نے انہیں مختلف حال
 میں چھوڑا۔
 الصَّرَعُ - مِم - مثل، قسم، رسی کی لڑی۔
 جہ۔ اَصْرَعُ وَصُرُوعٌ - کشتی

لڑنے والا۔
 الصَّرَعَةُ - اسم مرء۔ حالت۔ هُوَ يَفْعَلُ
 عَلَى كُلِّ صَرَعَةٍ - وہ ہر حال میں
 اس کو کرتا ہے۔
 الصَّرَعَةُ - جس کو لوگ اکثر پھینکا دیں۔
 اکثر پھینک دینے والا۔
 الصَّرَعَةُ وَالصَّرَاغُ وَالصَّرَاغَةُ
 وَالصَّرِيغُ - وَالصَّرُوعُ - وہ شخص
 جو لوگوں کو اکثر پھینکا دے۔ الصَّرَعَةُ
 بردبار۔ حلیم۔ الصَّرَعُ - جمع
 صُرُوع کی ہے۔
 الصَّرَاغَةُ - کشتی کا فن۔
 الصَّرِيغُ - جہ۔ صَرَعِي - پھینکا ہوا۔
 مجنون۔ بَاتَ صَرِيغًا الْكَاسِ
 مجنون ہو کر رات گزاری۔ جہ۔ صُرْعُ -
 درخت کی جھکی ہوئی شاخ۔
 المَصْرَعُ (دھ) پھینکانے کی جگہ۔ اکھاڑا
 المَصْرَاعُ - من الباب - دروازہ کا
 ایک پٹ۔ عوام اس کو دَرَفَةٌ کہتے ہیں
 مِنَ الشَّعْرِ - شعر کا ایک مصرعہ۔
 جہ۔ مَصَارِيغُ -
 صَرَفَةٌ (دھ) صَرَفًا - واپس کرنا۔ بٹانا۔
 صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ - اللہ ان
 کے دلوں کو گمراہ کر دے۔ صَرَفَ
 الشَّرَابَ - خالص شراب پینا۔
 الدَّنَانِيرُ - دنانیر کو درہم سے یا
 دوسرے دنانیر سے بدلنا۔ المَالُ -
 خرچ کرنا۔ الْكَلِمَةُ - کلمہ پر جرو
 تنوین لانا۔ منصرف بنانا۔
 صَرَفَ (دھ) صَرِيفًا - بنایا۔ دانت
 پسینا۔ البابُ - دروازہ کا کھولنا
 یا بند کرتے وقت پھول چوں کرنا۔
 صَرَفَةٌ - صرفہ کا مبالغہ۔ صَرَفَ
 الشَّيْءَ - پسینا۔ الدَّنَانِيرُ - درہم
 کو بدلنا۔ الْخَمْرُ - خالص شراب



پینا۔ الکلام۔ بات سے بات
تکالنا۔ کُافِی الْأَمْرِ۔ کوئی کام
کسی کو سپرد کرنا۔ صَرَفَ الْمَاءَ
پانی جاری کرنا۔ أَلْفَهُ الرِّیَاءَ۔
اللہ کا ہواؤں کو ایک طرف سے
دوسری طرف پھیر دینا۔
صَارَفَهُ۔ مبادلہ کرنا۔
أَصْرَفَهُ۔ عَنْ كَذَا۔ رو کرنا۔ بٹانا۔
أَصْرَفَ الشَّرَابَ۔ شراب میں
کچھ نہ ملانا۔
تَصَرَّفَ۔ فِي الْأَمْرِ۔ کسی معاملہ میں
تصرف کرنا۔ کام میں دخل پانا۔
تَصَرَّفَتْ بِهِ الْأَحْوَالُ۔ گردش ہائے
زمانہ کا کسی پر قابو پالینا۔
لَا تُصَرِّفَ۔ الرَّجُلُ۔ واپس ہونا۔ باز
رہنا۔ لَانْصَرَفَتْ الْكَلِمَةُ۔ کلمہ کا
منصرف ہونا۔
لَا صُطْرَفَ۔ (دھ) کسب معاش کے لیے
چلتا پھرتا۔ مشغول ہونا۔ الدَّارَ اِجْمَعًا
بدلنا۔
لَا تُصَرِّفَ اللَّهُ الْمَكَارِقَ۔ تکالیف کو
پھیر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے
التجارت کرنا۔
الصَّرْفُ (۵) ایک غلم کا نام ہے۔ جس
میں کلمات عربیہ کے صیغوں کی وضع و
بیئت سے بحث کی جاتی ہے۔
صَرَفَ الدَّهْرُ وَصُرُوفَهُ۔ زمانہ
کی گردشیں یا حادثات۔ لَمْ يَأْتِ عَلَى
صَرَفٍ۔ اس کو مجھ پر فضیلت ہے
صَرَفُ الْحَدِيثِ اَوِ الْكَلَامِ۔ کلام کی
زیادتی اور اس کی تزئین۔
الصَّرْفَانِ۔ خالص۔ الصَّرْفَانِ وَ
الصَّرْفَانِ۔ رات و دن۔
الصَّرْفَانِ۔ موت، پتیل اور سیسہ۔
الصَّرَافَةُ۔ صراف کا پیشہ۔

الصَّرْفَةُ۔ ایک منکاجس کو تعویذ کے
لیے استعمال کرتے ہیں۔ چاندک ایک
منزل۔ اونٹنی کو صبح کے وقت دوہ
کر دوسری آنے والی صبح تک چھوڑ
دینا۔
الصَّرِيفُ۔ مم۔ خالص چاندی۔
صَرِيفُ الْبَابِ۔ دروازہ کی آواز
صَرِيفُ الْقَلْعِ۔ قلم چلنے کی آواز۔
د۔ وَالْمَصْرُوفُ، ہر خالص شے۔
درخت کا خشک شدہ حصہ۔
الصَّرِيفَةُ۔ الصَّرِيفُ کا مؤنث۔ درخت
غرمائی خشک شاخ۔ ج۔ صُرْفٌ وَ
صَرَافٌ وَ صَرِيفٌ۔ تَصَارِيفُ
الدَّهْرِ۔ گردش ہائے زمانہ۔ حوادث
زمانہ۔
الصَّرَافُ وَالصَّرِيفُ وَالصَّرِيفِيُّ۔
ج۔ صِبَارِفَةٌ۔ روپیہ پر کھنے والا۔
نقدی کی تجارت کرنے والا۔
الصَّرَافُ وَالصَّرِيفُ۔ علم صرف
جاننے والا۔
الْمُتَصَرِّفُ۔ ایک صوبہ کا حاکم۔
الْمُتَصَرِّفَةُ۔ صوبہ گورنری کا عہدہ
صَرَقَ۔ أَصَابَ بَعْدَ۔ انگلیاں چٹھانا۔
صَرَمَ رِكْ، صَرَامَةٌ۔ السَّيْفُ اَوِ
الرجل۔ تلوار کا کاٹنا۔ آدمی کا
بہادر ہونا۔
صَرَمَ رَضٍ، صَرَمًا وَصَرَمًا۔ الْحَبْلُ۔
رسی کا ٹوٹنا۔ الشَّيْءُ۔ کاٹنا۔
فُلَانًا۔ چھوڑنا۔ گفت گو بند کرنا۔
فُلَانٌ عِنْدَنَا شَهْرًا۔ ایک ماہ
اقامت کرنا۔ صَارَمَةً مَصَارَمَةً
علمیہ ہونا۔
أَصْرَمَ۔ الرَّجُلُ۔ محتاج ہونا۔ الْخُلُ
کھجور کے چننے کا وقت قریب آنا۔
تَصَرَّمَ۔ الرَّجُلُ۔ بہادری کرنا۔

وَالصَّرَمُ، كَثًا۔ لُؤْلُؤُهُ تَصَرَّمَتْ
وَالصَّرَمَاتِ السَّنَةُ۔ سال کا ختم ہونا
گذرنا۔
تَصَارَمَ۔ الْقَوْمُ۔ باہم قطع تعلق کرنا۔
أَصْطَرَمَ۔ الشَّيْءُ۔ کاٹنا۔
الصَّرْمُ۔ مم۔ کھال درچرم کا معرب ہے،
- الصَّرَامُ۔ کھال کا نیچنے والا۔ چرم
فروش۔
الصَّرْمُ۔ جماعت۔ گھروں کا اجتماع۔ قسم
چمڑے کا موزہ۔ ج۔ أَصْرَامٌ وَ
أَصَارِمٌ وَ أَصَارِيمٌ وَ صُرْمَانٌ۔
الصَّرْمُ۔ مم۔ قطع تعلق۔
الصَّرْمَةُ۔ قسم۔ اونٹوں کا کلمہ۔ بادل یا
چاندی کا ٹکڑا۔ ج۔ صَرْمٌ۔
الصَّارِمُ۔ فا۔ بہادر بشیر، شمشیر بڑاں۔
ج۔ صَوَارِمٌ۔
الصَّرَامَةُ۔ مم۔ خود رائے آدمی۔ اپنی
رائے کا پکا۔
الصَّرُومُ۔ کاٹنے والی تلوار۔ اچھی طرح
کاٹنے والا۔
الصَّرَامُ۔ لُطَائِي۔ جنگ۔ مصیبت۔
الصَّرِيحُ۔ کٹا ہوا۔ رات یا اس کا ایک
حصہ۔ صبح۔ دودھ پینے سے روکنے
کے لیے بکری کے بچے کے مزے لگائی
ہوئی ٹکڑی۔ وہ زمین جس پر سے فصل
کاٹ لی گئی ہو۔ وہ غلہ جو کھیت سے
کٹ چکا ہو۔ صَرِيحًا الْكَلِيلُ۔ رات
کا اول و آخر حصہ۔
الصَّرِيحَةُ۔ عَزِيمَتِ، رات کا ایک حصہ۔
الصَّرِيمُ۔ پکی رائے والا۔ مصیبت۔ دن
میں ایک بار کا کھانا۔
الْأَصْرَمُ۔ جس کے کانوں کے کنارے
کٹے ہوئے ہوں۔ مؤنث صَرَمَاءُ
ج۔ صُرْمٌ د۔ الْمُصْرِمُ، مفلس
بہت بال بچے والا

الْأَصْرَمَانِ - رات دن، بھیڑیا اور کوا۔
 الصَّرْمَاءُ - الْأَصْرَمُ کا مؤنث، بے آب
 بیابان۔ مائثری۔ کم دودھ والی اونٹنی۔
 الْمَصْرِمُ - تنگ جگہ۔ جلد سیلاب لانے
 والی جگہ۔
 الصُّرْنَايَةُ - بانسری کی قسم کا ایک باجرہ
 شبنائی۔
 صَرَّايَصْرُ وَصَرَّوَا - الْكَيْلُ - دیکھنا۔
 صَرَّى يَصْرِى صَرِيًّا - الشَّيْءُ - دفع
 کرنا۔ دور کرنا۔ صَرَّى بَوْلَهُ -
 پیشاب روک دینا۔ فَلَانًا - کسی
 کو بچانا۔ منع کرنا۔ ہلاکت سے خلاصی
 بخشنا۔ الشَّيْءُ - بلند ہونا۔ پرست
 ہونا (مذموم)۔ الْقَوْمُ - قوم سے آگے
 نکلنا۔ عَنْهُمْ - قوم سے پیچھے
 رہنا (مذموم)۔ بَيَّنَّهُمْ - فیصلہ کرنا۔
 صَرَّى يَصْرِى صَرِيًّا - المَاءُ - پانی کا
 زیادہ رُکے رہنے سے متغیر ہونا۔
 اللَّبَنُ - دودھ کا مزہ ہلکا۔
 فَلَانٌ فِي يَدِ فَلَانٍ - کسی کا کسی کے
 ہاتھ میں قید و محبوس رہنا۔ الدَّامِعُ
 آنسو کا آنکھ میں ڈبڈبانا۔
 صَرِيَّتْ وَأَصْرَتِ - النَّاَقَةُ - اونٹنی کے
 تھنوں میں دودھ اتر آنا۔
 صَرَّى تَصْرِيدَةً - النِّشَاءُ - بکری کا دودھ
 زیادہ بتانے کے لیے دودھ تھن میں
 روک دینا اور اس کو نہ دو ہونا۔
 الصَّرِي - چیز کا بقیہ۔
 الصَّرِي - زیادہ ٹھہرایا ہوا پانی۔
 الصَّارِي - فَا - مِلَاح - جہ - صُرَّاءُ و
 صَرَّارِيٌّ وَصَرَّارِيَّوْنَ - بادبان کا
 ڈنڈا - جہ - صَوَارٍ -
 الصَّارِيَّةُ - الصَّارِي کا مؤنث۔ وہ کنواں
 جس کا پانی زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے
 متغیر ہو جائے۔

الصَّرَاةُ وَالصَّرِي وَالْمَصْرَاةُ - مِنْ
 النِّشَاءِ وَالنُّوقِ - وہ بکری یا اونٹنی جس
 کو کئی روز تک نہ دوا گیا ہو تاکہ دودھ
 تھنوں میں جمع ہو جائے۔
 الْمِصْطَبَةُ وَالْمِصْطَبَةُ - چبوترہ۔
 الْمِصْطَبُ - لہار کی نانی۔
 الْمِصْطَحُ - خشک صحرا۔ کھلیان۔ جہ۔
 مَصَاطِحُ -
 صَطْرَانِ صَطْرًا كَعَنًا - صَبِيحُ
 داروغہ ہونا۔ الْمِصْطَحُ - فصیح بلیغ۔
 الْأَصْطَلَةُ - چیز کا بڑا حصہ۔ جمع ہونے
 کی جگہ، وسط۔
 صَعِبَ دَنٌ صَعُوبَةً - عَلَيْهِ الْأَمْرُ -
 دشوار ہونا۔ صَفَتِ (صَعَبٌ)
 مؤنث صَعَبَةً - جہ - صَعَابٌ -
 أَصْعَبَ - الْأَمْرُ - کام کا دشوار ہونا۔
 الشَّيْءُ - مشکل پانا۔ الْجَبَلُ -
 اونٹ پر سواری نہ لینے کی وجہ سے
 اس کا بے قابو ہو جانا۔
 صَاعِيَةً مَصَاعِبَةً - سختی کرنا۔
 صَعَبَةً - مشکل بنانا۔
 تَصَعَّبَ - مشکل ہونا۔ الْأَمْرُ -
 مشکل بنانا۔
 تَصَاعَبَ - باہم سختی کرنا۔
 اسْتَصْعَبَ - مشکل پانا۔ دشوار ہونا۔
 الصَّعْبُ - صم - دشوار۔ خرودار - شیر۔
 الصَّعُوبُ - مشکل، دشوار۔ جہ۔
 صَعَبٌ -
 الصَّعُوبُ - دشوار۔
 الْمَصَاعِبُ - سختیاں، مشقتیں۔
 الْمَصْعَبُ - سائد۔ وہ گھوڑا جس پر
 سواری نہ لینے کی وجہ سے سرکش ہو گیا
 ہو۔ جہ۔ مَصَاعِبُ وَمَصَاعِيبُ -
 کہتے ہیں "بِحَالٍ مَصَاعِبٍ وَمَصَاعِيبُ"
 یعنی سرکش اونٹ۔

صَعَتَرُ - النَّمْلُ - شہد کی مکھی کا پہاڑی
 پودینہ کھانا۔ الرَّجُلُ الشَّيْءُ -
 زہریت دینا۔
 الصَّعَتَرُ - پہاڑی پودینہ۔ الصَّعَتَرِيُّ -
 چالاک، شریف، بہادر۔
 صَعَدَ (دَسَ) صُعُودًا وَصَعَدًا وَصَعْدًا
 - فِي السُّلْجِ سِيرًا سِيْرًا سِيْرًا سِيْرًا
 بہ۔ پڑھنا (دَسَ) صُعُودًا (المكان
 نیچے دیکھتے ہوئے پڑھنا۔
 صَعَدَ - فِي وَعَلَى الْجَبَلِ - پہاڑ پر
 پڑھنا۔ فِي الْوَادِي - وادی میں
 اترنا۔ صَعَدَ فِيهِ النَّظَرُ - اس
 نے اس کو غور سے اوپر نیچے دیکھا۔
 أَصْعَدَ - مَكَرَ كُوجَانَا - فِي الْأَرْضِ - اونچی
 زمین کی طرف سفر کرنا۔ فِي الْوَادِي -
 وادی میں اترنا۔ فِي الْعَدُوِّ - تیز
 دوڑنا۔ ۵۔ پڑھنا۔ أَصْعَدَتِ
 السَّفِينَةُ - کشتی کا بادبان تھنا اور
 ہوا کا کشتی کو لے چلنا۔
 تَصَعَّدَ وَتَصَاعَدَ - پڑھنا۔ تَصَعَّدَ و
 تَصَاعَدَ الْأَمْرُ - کام کسی پر دشوار
 ہونا۔ تَصَعَّدَ النَّفْسُ - سانس مشکل
 سے نکلنا۔
 اصْطَعَدَ - پڑھنا۔
 الصَّاعِدُ - فَا - بَلَغَ كَذَا أَفْصَاعًا - یعنی
 اس سے اوپر اس کا نصبِ حالیت کی
 وجہ سے ہے۔
 الصَّاعِدُ - بہت چڑھنے والا۔
 الصُّعْدُ - بلند یہی هَذَا النَّبَاتُ يَنْحُمُوا
 صُعْدًا - یہ پودہ بلندی میں بڑھتا
 ہے۔
 الصُّعْدُ - مشقت۔ عَذَابٌ صَعْدٌ -
 سخت عذاب۔
 الصُّعِيدُ - مٹی۔ قبر۔ راستہ۔ زمین کا بلند
 حصہ۔ جہ۔ صُعْدٌ وَصُعْدَاتٌ و

صُعْدَانٌ - الصَّعِيدُ - مصر کے چند شہروں کے نام۔
 الصُّعُودُ - مم - چڑھائی۔ تَجِيئُ الصُّعُودِ جمعات کا دن جس میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔
 الصُّعُودُ - چڑھائی۔ بلندی کی طرف جانے والا راستہ۔ دشوار گزار گھاٹی۔ ج صُعْدٌ وَاصِعَةٌ وَصَعَائِدٌ - الصُّعْدَاءُ - غم یا شکان سے لباسا نس۔ الصُّعْدَاءُ - مشقت۔
 الصُّعْدَةُ - صَعْدٌ کا اسم مرہ۔ سیدھا نیزہ۔ ج صِعَادٌ وَصَعْدَاتٌ - الصُّعُودَاءُ - دشوار گزار گھاٹی۔
 المِصْعَدُ - مِنَ الْأَشْرَبَةِ - دوا کا جوہر جو آگ پر گرم کر کے لیا جاتا ہے۔
 المِصْعَادُ - درخت خرمایہ پر چڑھنے کی رسی۔
 صَعْرَسَ (رس) صَعْرًا - دَجَّهَهُ مِنْهُ كَاطِرَها ہونا۔ صفت (أَصْعَرُ) مونث صَعْرَاءُ - ج - صَعْرٌ - رَاسُهُ سر کا چھوٹا ہونا۔
 صَعْرٌ وَصَاعِرٌ وَأَصْعَرٌ - خَدَّكَ - تکبر سے رخساروں کو ٹیڑھا کرنا۔ کبھی خَلَقَهُ الْبِیَا ہوتا ہے۔
 تَصَعَّرَ وَتَصَاعَرَ - تَكْبَرُ مِنْ رِخْسَارٍ - تکبر سے رخسارہ ٹیڑھا کرنا۔
 صَعْرَسَ - الشَّيْءُ - گھانا۔ تَصَعَّرَسَ - گھومنا۔
 اصْعَنَرُوا اصْعَرَسَا - پیچ و تاب کھانا اصْعَرَّتِ الْإِبِلُ - اونٹ تیز چلے الصَّغَارُ - متکبر مغرور الصُّغُورُ وَالصُّغُورُ - درخت کا جما ہوا رس۔ ج - صَعَارِيْدٌ - الصُّعُورُ سَاةٌ - گبریلہ کی گولی۔

صَعَصَعَ - القَوْمُ - قوم کو متفرق کرنا۔ الشَّيْءُ حَرَكْتُ دِنَا - مِنْ فُلَانٍ ڈرنا۔ رَاسُهُ بِالْذَّهْنِ، سر کو تیل سے چکنا کرنا۔
 تَصَعَصَعَ - حَرَكْتُ کرنا۔ متفرق ہونا۔ الرجلُ - بزدل ہونا۔ ذلیل ہونا۔ عاجزی کرنا۔ تَصَعَصَعَ بِهَوْنٍ الدَّهْرُ - زمانہ نے ان کو کمیر دیا۔ تتر بتر کر دیا۔
 الصَّعَصَعُ - متفرق۔ (ر - والصَّعَصَعُ) ایک پرندہ ہے۔ ج - صَعَايِعُ - صُعِفَ صَعْفًا - کانپنا۔
 أَصْعَفَ - الذَّرْعُ - غلے سے چھلکا اترنے کے قابل ہونا۔ صفت۔ (صَعِيفٌ)
 الصَّعْفَةُ - مُنْذِيَاخُوفٌ سے کپکپی۔ الصَّعْفُ وَالصَّعْفُوقُ وَالصَّعْفَقِيُّ - نادار۔ خریدار۔ بے سرمایہ کا گاہک۔ کمزور۔ بزدل۔ بے ہمتیار۔
 الصَّعْفُوقُ - کینہ۔ ج - صَعَايِقُ وَصَعَايِقَةٌ - صَعَقْتُ (ر) صَاعِقَةٌ - السَّمَاءُ القَوْمُ - بجلی گرنا۔ صَعَقَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ - بجلی گرنا۔
 صَعِقَ (رس) صَعَقًا - الرُّعْدُ - بادل کا زور سے گرجنا۔ الزَّكِيَّةُ - کنوئیں کا گرجنا۔ ر - وَصِيقٌ صَعْفًا وَصَعْفًا وَصَعْفًا وَتَصَاعَفًا گرج کی آواز سے غشی طاری ہونا۔ صفت صَعِقٌ - مرنا۔ صَوِقُ الثَّوْرُ - بیل کا زور سے ڈکارنا۔
 اصْعَقْتُهُ - السَّمَاءُ آسَمَانِ کا کسی پر بجلی گرنا۔ اصْعَقَهُ - قتل کر دینا۔ الصَّعِقُ (ر) - پیچ۔ موت۔
 الصَّعَاقُ - بادل کی گرج و کرک

الصَّاعِقَةُ - مم - زمین پر گرنے والی بجلی۔ موت۔ ہر ملک عذاب۔ عذاب کی پیچ۔ ج - صَوَاعِقُ - المَصْعُوقُ - غشی والا۔ اچانک مرنے والا۔
 الصُّعْفَرُ - مچھلی کے انڈے۔ صَعِلَ (رس) صَعْلًا وَاصْعَالًا - چھوٹے سر اور پتلی گردن والا ہونا۔ صفت۔ (أَصْعَلُ) مونث صَعْلَاءُ - ج - صُعْلُ - الصُّعْلُ - چھوٹے سر والا شتر مرغ یا آدمی یا کھجور۔ لبا۔ وہ گدھا جس کے بال جھڑ گئے ہوں۔
 صَعْلَكُ صَعْلَكَةٌ - محتاج بنانا۔ ڈبلا کرنا۔
 تَصَعْلَكَ - محتاج ہونا۔
 الصُّعْلُوكُ - فقیر۔ محتاج۔ کمزور۔ ج - صَعَالِيكُ وَصَعَالِكُ - صَعَالِيكُ الْعَرَبِ - عرب کے چوراہے اور فقرا۔
 أَصْعَنَ - الرجلُ - چھوٹے سر اور کم عقل والا ہونا۔
 اصْعَنَ - الشَّيْءُ - باریک اور نازک ہونا۔ صَعَايِعًا صَعُورًا - پتلا اور چھوٹا ہونا۔ الصُّعُودُ - چھوٹی چڑیاں۔ واحد (صُعُودٌ) ج - صَعَوَاتٌ - مولا۔ بیا۔ ج - صَعَاءٌ وَأَصْعَاءُ - نَاقَةٌ صَعُودَةٌ - چھوٹے سروالی اونٹنی۔
 الصُّعْبُ - لکھیں۔ جوں کے انڈے۔ صَعْرَسَ (رس) وَصَعْرُوكَ - صَعْرًا وَصَعَارَةً وَصَعْرًا وَصَعْرًا - چھوٹا ہونا۔
 صَعْرُوكَ - صَعْرًا وَصَعْرًا وَصَعْرًا وَصَعْرًا - ذلیل و خوار ہونا۔ صَعْرَتِ الشَّمْسُ - سورج کا غروب کی طرف مائل ہونا۔

صَغَرْدَن، وَصَغَرْدَس، صَغَرَا - القوم قوم میں چھوٹا ہونا۔ فَلَانًا کسی سے چھوٹا ہونا۔ ہم کہتے ہیں: مَا صَغَرَنِي إِلَّا بِسَنَةِ دَهْ مجھ سے صرف ایک سال چھوٹا ہے۔
 صَغَرَةً وَاصْغَرَةً - چھوٹا بنانا۔ ذلیل کرنا۔
 اصْغَرَتِ الارضُ - زمین کا چھوٹے پودوں والی ہونا۔
 لَصَاغَر - الرجل - حقیر ہونا بے قدر ہونا۔
 اسْتَصْغَرَهُ - چھوٹا سمجھنا۔ چھوٹا پانا۔
 الصَّغَرَةُ - سب سے چھوٹی اولاد۔ قوم میں سب سے چھوٹا۔ أَنَا مِنَ الصَّغَرَةِ میں چھوٹے لوگوں میں سے ہوں۔
 الصَّغَارُ وَالصَّغَرُ ذِلَّةٌ، حَقَارَةٌ، كَمَزُورِي، كُمِي، ظَلَمٌ۔
 الصَّغَارَةُ - م۔ چھوٹاپن، بعض کے نزدیک الصَّغَارَةُ - قدر و منزلت میں چھوٹا پن، اور الصَّغَرُ - جسامت میں چھوٹا ہونا۔
 الصَّغَارُ وَالصَّغَرَانُ - چھوٹا۔
 الصَّاعِغُ - ذلیل، حقیر، ذلت اور ظلم برداشت کرنے والا۔ ج۔ صَغَرَةً وَصَاعِغُونَ۔
 الصَّغِيرُ - چھوٹا۔ ج۔
 الْأَصْغَرُ - اسم تفضیل۔ ج۔ اصَاغِرُ وَاَصَاغِرَةٌ وَأَصْغَرُونَ - مؤنث۔
 صَغْرِي - ج۔ صَغَرٌ۔
 الْأَصْغَرَانِ - دل و زبان، اور اسی سے ہے الْمَرْءُ بِأَصْغَرِيهِ - کہ آدمی کی قدر و منزلت دو چھوٹی چیزوں دل و زبان سے ہے۔
 صَخَا يَصْغُو وَيَصْغِي صَغَوًا وَصَغِي يَصْغِي صَغِيًا وَصَغِيًا - لَيْدِي۔
 مائل ہونا۔ النُّجُومُ وَالشَّمْسُ دُورَ بَنِي لَنَا مَسْتَدِ صَغَوًا ج

صَوَاغِخَ۔
 اصْغَى (صَغَاءَ - إِلَى حَدِيدِيهِ - کان لنگا کان دھڑا۔ الیہ - سننے کے لیے جھکنا۔ الانَاءُ - برتن جھکانا۔
 الشَّيْءَ - کم کرنا۔ گھٹانا۔ الصَّغْوُ - کنویں کا کنارہ۔ ڈول کے دوہرے کنارے۔ چھچکا کرنا۔ ج۔ اصْغَاءُ صَاغِيَةً - الرَّجُلُ - آدمی کے ماتحت نوکر چاکر، آدمی کی قوم۔ تم کہتے ہو۔ اَكْرَمُوا فَلَانًا فِي صَاغِيَتِهِ - یعنی اس کی قوم میں اس کی عزت کرو۔
 صَفَّ (دَن) صَفًّا وَصَفَّتْ - الشَّيْءَ - صف بنانا۔ القوم - قوم کو جنگ وغیرہ میں صف بندی سے کھڑا کرنا۔
 صَفَّتِ الْقَوْمُ - قوم کا صف بندی سے کھڑا ہونا۔ الطَّائِفُ جَنَاحِيهِ - بوندہ کا اپنے بازوؤں کو پھیلا نا، اور حرکت نہ دینا۔ الْاَيْلُ قَوَائِمُهَا - اڈٹل کا اپنے پاؤں کو ایک قطار میں رکھنا۔ اللَّحْمُ - گوشت کو لمبائی میں پھیرنا۔ السَّرَجُ - گدی بنانا۔
 صَافٌ مَصَافَةً - القوم فِي الْقِتَالِ - جنگ میں قوم کا ایک صف میں کھڑا ہونا۔
 فَلَانٌ فَلَانًا کسی کے چبوترے کے مقابل اپنا چبوترہ بنانا۔ اصْفَ السَّرَجُ - زین کے لیے گدی بنانا۔
 تَصَافَتِ - القوم - صف و جمع ہونا۔
 اصْطَفَتِ - القوم - صف بستہ کھڑے ہونا۔
 الصَّفُّ - م۔ ہر شے کی سیدھی قطار، کلاس۔ صف بستہ قوم۔ ج۔ صَفُوفٌ الصَّفَّةُ - زہر کے نیچے پھینکے والے۔ صَفَّةُ السَّرَجِ وَالرَّجُلِ - زین یا کجاوہ کی گدی۔ صَفَّةُ الْمَسْجِدِ - مسجد کے

قريب سایہ وار چبوترہ۔ الصَّفَّةُ گرمی کے لیے گھاس پھوس کی چھت کا مکان۔
 صَفَّةٌ مِنَ الدَّهْرِ - زمانہ کا ایک عرصہ۔ ج۔ صَفَفٌ وَصَفَاتٌ وَصَفَاتٌ۔
 الصَّافُ - ذَا الصَّافَةِ مِنَ الْاَيْلِ - ایک قطار میں لٹا گئیں رکھے ہوئے اونٹن۔
 ج۔ صَافَاتٌ وَصَوَاتٌ - الصَّافَاتُ فرشتے۔ نَاقَةٌ صَفُوفٌ - بہت دوڑ دینے والی اونٹنی۔
 الصَّفِيفُ - دھوپ میں سکھانے کے لیے یا آگ پر بھوننے کے لیے قطاریں رکھی ہوئی چیز۔
 الْمَصْفُ - صف بندی کی جگہ۔ میدان کارزار یا ہر کھڑے ہونے کی جگہ۔ ج۔ مَصَافٌ - تَصَفَّتِ - الرجل - قوی اور مضبوط ہونا۔
 الصِّفَتِ وَالصِّفَتَانِ وَالصِّفَتَانِ - بڑا جیم، مضبوط۔ ظالم۔
 صَفَحَ (دَف) صَفْحًا - عَنَدُ - منہ پھیرنا۔
 رَوَّادِي كَرْنَا - اعراض کرنا اور ترک کرنا گناہ سے درگزر کرنا۔ معاف کرنا۔
 صَفَحَ السَّائِلَ عَنْ حَاجَتِهِ سَائِلُ كِي حَاجَتِ پوری نہ کرنا۔ ذَا السَّيْفِ - تلوار چوڑی طرف سے۔
 طرف سے نہیں۔ الشَّيْءَ - چھڑا کرنا۔
 النَّاسَ - لوگوں میں مقابلہ کر کے ان کے حالات کو دیکھنا۔ ج۔
 الْمَصْحَفُ - ایک ایک ورق پر لکھی چیز۔
 صَفَحَتِ (دَف) صَفْحًا - السَّائِلَ عَنْ حَاجَتِهِ - اونٹنی وغیرہ کا دودھ خشک ہونا۔
 صَفَتِ - (دَصَافَةً) صَفَحَ - الشَّيْءَ - چیز کو لمبا چھڑا کرنا۔
 الْمَكَانَ - مکان میں چھڑے پتھروں کا فرش بنانا۔ صَفَحَ بَيْدِيهِ - دونوں



ہاتھوں سے تالی بجانا۔

أَصْفَحَ - السَّائِلَ - سائل کو ناکام واپس پھینکا۔ الشَّيْءَ - الثَّنَا، پلٹنا۔

صَافِحَةٌ صَافِحًا وَمُصَافِحَةٌ - مصافحہ کرنا۔ ہاتھ ملانا۔

قَصَفَتْ - الشَّيْءَ - غور سے سوچنا۔ غور سے دیکھنا۔ القَوْمَ - حالات کا پتہ لگانے کے لیے قوم کے چروں کو غور سے دیکھنا۔ حالات میں غور و فکر کرنا۔

تَصَافَحَ - القَوْمَ - ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا۔ تَصَافَحَتِ الْأَجْفَانُ - پلک جھپکنا۔

اسْتَصَفَحَهُ - الذَّنْبَ - گناہ کی معافی چاہنا۔

الْمُصَفِّحُ (ن) - جَانِبٌ - مِنَ الْوَجْهِ - رخسارہ - مِنَ الْإِنْسَانِ - انسان کا پہلو۔ مِنَ السَّيْفِ - تلوار کا چوڑا پہلو۔

ج - صَفَّاهُ - مَعْرَبٌ عِنْدَهُ مَفْعًا - اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔

الْمُصَفِّحَةُ - مِنَ الشَّيْءِ - پہلو۔ سامنے کا حصہ۔ مِنَ الْكِتَابِ - کتاب کا صفحہ۔ صَفْحَةُ الرَّجُلِ - سینہ کی چوڑائی۔ ج - مَفْعَاتٌ -

الْمُصَفِّحَانِ وَالْمُصَفِّحَتَيْنِ - رخسارے۔

الْصَّفَّاهُ مِم - (ن) وَالصَّفَّاهُ رَخْسَارٌ - یا پیشانی کی بہت زیادہ چوڑائی، کہتے ہیں: لَقِيدَةُ جَدِّهَا، یعنی وہ اس سے اچانک ملا۔

الْصَفِيحُ - آسمان، ہر چوڑی چیز کا ظاہر۔

الْصَفِيحَةُ - چوڑی تلوار۔ چوڑا پتھر۔ ہر لمبی چوڑی چیز کا ظاہر۔ صَفِيحَةٌ -

الْوَجْهَ - چہرے کی کھال۔ ج -

صَفِيحٌ وَمُصَفِّحٌ - الصَّفَائِمُ - سر کی چار ہڈیاں۔ دروازے کے تختے۔

الْمُصَفِّحُ - چوڑے پتلے پتھر۔ بڑے کوٹان

وَلَهُ أَوْنٌ - ج - مَفْعَاتٌ وَ صَفَائِمٌ -

الْمُصَفِّحُ وَالْمُصَفِّحُ - گناہ معاف کرنے والا۔ الصَّفْوُ - کریم۔

الْمُصَفِّحُ - چوڑا۔ الثَّابِتُ - جھکا ہوا۔

مِنْ الْوَجْهِ - ظالم و خوب صورت چہرہ۔ مِنَ الْأَوْنِ - درمیانی

بلندی والی ناک۔ مِنَ الرُّؤُوسِ - کنپٹیوں کے پاس سے تنگ اور پیشانی اور گردی کے درمیان لمبا۔ مِنَ

الْقُلُوبِ - وہ دل جس میں ایمان و اتفاق دونوں جمع ہوں۔ مِنَ

النَّاسِ - وہ دورِ خارجہ جو کافروں سے بھی میل رکھے اور مومنوں سے بھی۔

الْمُصَفِّحُ - چوڑا۔ جس پر چوڑی سلیں لگی ہوں۔

الْمُصَفِّحَةُ وَالْمُصَفِّحَةُ - تلوار۔ ج - مَفْعَاتٌ وَمَفْعَاتٌ -

صَفْدَةٌ دَمْنٌ صَفْدٌ أَوْ صَفْوَدٌ أَوْ صَفْدَةٌ - ہاندھنا۔ قید کرنا۔ ہتھکڑی لگانا۔

أَصْفَدَهُ - قید کرنا۔ مَالًا - مال دینا۔ الصَّفْدُ - بخشش، ہتھکڑی

ج - أَصْفَادٌ - کہتے ہیں: الصَّفْدُ صَفْدٌ - بخشش ایک قید یا ہتھکڑی ہے۔

الْصَّفَادُ - ہتھکڑی، بندھن، بندش۔

صَفْرَدُضٌ صَفْرِيٌّ - ہونٹوں سے سیٹی بجانا۔ صَفْرٌ بِالْفَرَسِ عِنْدَ

دَرْدِيٍّ - گھوڑے کو پانی پینے کے لیے بلانا۔

صَفْرٌ صَفْرًا - پیٹ میں صفراء جمع ہونا۔ صَفْتٌ - دَمُصْفُوفٌ

صَفْرَدُضٌ صَفْرَدُضًا وَصَفْوَرَةٌ

- الْإِنَاءُ -

صَفْرَدُ لِحَابُهُ إِنَاءٌ - وہ ہلاک ہوا۔ صَفْرٌ - الشَّيْءَ - زرد کرنا۔ الثَّوْبَ -

کپڑے کو پیلارنگنا۔ الْبَيْتَ - گھر کو خالی کرنا۔ لِلدَّائِبَةِ - جانور کے لیے ہونٹوں سے سیٹی بجانا۔ بِالْدَّائِبَةِ - جانور کو پانی کے لیے بلانا۔

أَصْفَرٌ - محتاج و کنگال ہونا۔ الْإِنَاءُ - برتن خالی ہونا۔ الْبَيْتَ - گھر کو خالی کرنا۔

أَصْفَرٌ وَلِصَفَّاشٍ - زرد رنگ ہونا۔

الْصَفْرُ وَالْصَفِيرُ وَالْصَفْرُ - خالی۔

صَفْرٌ أَلْيَسٌ - تہی دست۔ خالی ہاتھ۔

الْصَفْرُ - سونا۔ پیتل۔ الصَفْرُ - صفر، نقطہ۔

صَفْرٌ - قمری سال کا دوسرا مہینہ۔ ج - أَصْفَارٌ دِغْرٌ مَصْفَرٌ،

الْمَصْفَرَانِ - محرم و صفر۔

الْصَفْرُ - پیلیا۔ بَرَقَانٌ كِي بِيَارِي - بھوک، عقل۔

عَلَى شَرْطِئِهِ الصَّفْرُ - وہ بھوکا ہو گیا۔ لَا يَلْتَمِظُ هَذَا بِصَفْرِيٍّ - اس کو میری عقل قبول نہیں کرتی۔

الْصَفْرُ - خالی۔ ج - أَصْفَارٌ - الصَّفْرَةُ - بھوک، معدہ کا خالی ہونا۔

الْصَّفْرَةُ - سنہری رنگ، زرد رنگ، سیاہی۔

الْصَفْرِيَّتُ - فقیر، محتاج۔ ج - صَفْرَانِيَّتُ - الصَّفْرِيَّتُ وَالصَّفْرِيَّتُ - موسمِ خریف کی بارش، فصلِ خریف کا پودہ۔

الْصَفَارُ - سیٹی۔

صَفْرَاءُ - پٹار۔ زردی جو رنگ پر غالب ہو۔ (وَالصَّفَارُ) جانور کے دانتوں میں گھاس کا بقیہ۔

الْصَفَارَةُ - مرجھایا ہوا پودہ۔

الْصَفِيرُ مِم - ہر لمبی آواز حروف سے خالی

س

حُرُوفُ الصَّفِيْفِ (ر، س، م، ص)
الصَّفَارُ - مَظْطِیرا - الصَّفَارَةُ - سیٹی -
مقعد -

الصَّفَارِیَّةُ - ایک زرد پرول کا پرندہ -
الصَّفَارِیُّ - خا - چور سیٹی بجانے والا -
ایک قسم کا پرندہ جو رات کو سوتا نہیں -
اور آواز دیتا رہتا ہے، ہر ایک پرندہ
جو شکاری نہ ہو - ہر ایک بولنے والا
پرندہ - مَا بِالْأَدَارِ صَافِرٌ - گھریں
کوئی نہیں -

الْأَصْفَرُ - زرد رنگ کا - مُؤَنَّثُ صَفْرَاءُ
جہ - صَفْرٌ - الصَّفْرُ - دینار -
الْأَصْفَرَانِ - زعفران اور سونا -
الصَّفْرَاءُ - سونا - پت - چار اخلاط میں
سے ایک خلط - وہ ٹڈی جو انڈے
دے چکی ہو - ایک قسم کا پودہ جس کے
پتے خس سے مشابہ ہوتے ہیں -

المُصْفِرُ - محتاج - تنگدست -
المُصْفُورُ - المَصْفُورُ - بھوکا -
الصَّفْرَدُ - بزول میں مشہور ایک پرندہ -
صَفَصَتْ - الرجلُ - بیابان میں تنہا
چلنا - العُصْفُورُ - چڑیا کا چھمانا -
الصَّفَصَفُ - ہمارے زمین - الصَّفَصَفُ
چڑیا -

الصَّفَصَفَةُ - بیابان -
الصَّفَصَانُ - درخت بید - واحد -
(صَفَصَافَةٌ)

صَفَعَةُ (ر) صَفْعًا - تھپڑ مارنا - گدی
پر تھپڑ مارنا -

صَافَعَةٌ وَتَصَافَعَا - ایک دوسرے
کو تھپڑ مارنا -

الصَّفَعَاتُ وَالْمُصَفَعَاتُ - جس پر
بہت تھپڑ لگائے جائیں -

صَفَقَةٌ (ر) صَفَقًا - تھپکی لگانا -
تالی بجانا - صَفَقَ الْبَابَ - دروازہ

بند کرنا - کھولنا - (ر) الرجلُ
عَنْ مُرَادِهِ - کسی کو اس کے ارادے
سے پھیر دینا - الطَّائِرُ يَجْنَحُ حَيْثُ -
پرندہ کا بازو پھیلانا - عَيْنُهُ -
آنکھ بند کرنا - الْعُودُ - بربط بجانا
- الْقَدَحُ - پیالہ بھرنا - الشَّرَابُ -
شراب کو نتھارنے کے لیے ایک برتن
سے دوسرے برتن میں کرنا - كَتَأَ
بِالْبَيْعِ وَصَفَقَ عَلَى يَدِهِ وَ
صَفَقَ يَدَهُ بِالْبَيْعَةِ - سودا کرنے
کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا - الرجلُ -
چلا جانا - ذُ بِالْمَسِيْفِ - تلوار سے
مارنا - الْيَوْمِ الْأَشْبَارُ - ہوا کا درختوں
کو بلانا -

صَفَقَ (ر) صَفَاقَةً - الرجلُ آدمی کا
بے شرم ہونا - الثَّوبُ - کپڑے کی
بنائی کا لگت ہونا -

أَصْفَقَهُ - پھینکا - روکرنا - الحَوْضُ -
حوض میں پانی جمع کرنا - الْقَوْمُ -
قوم کے پاس اس قدر کھانا لانا کہ وہ
سیر ہو جائے - الثَّوبُ - کپڑے
کا لگت بننا - الْقَوْمُ - پریشان ہونا -
أَصْفَقَ - لی - میرے لیے مقدر ہوا -

صَفَقَ - الطَّائِرُ يَجْنَحُ حَيْثُ - پرندہ کا بازو
پھیلنا - الرجلُ يَدِيَهُ - تالی
بجانا - حَوْلَ الشَّيْءِ - چاروں طرف
گھومنا - طواف کرنا - الرجلُ - جانا -

- الشَّرَابُ - شراب کو نتھارنا -
صَافَقَ - الرَّجُلَانِ عِنْدَ الْبَيْعِ - بیع کے
وقت ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ
مارنا - بَيْنَ تَوْبَيْنِ - ایک کپڑے
کو دوسرے پر پہننا -

تَصَافَقَ - الْقَوْمُ - آپس میں خرید و
فروخت کرنا -

تَصَفَّقَ - الرجلُ - ترو و کرنا - لِلْأَمْرِ -

در پے ہونا -
لَا تَصَفَّقَ - واپس ہونا - پھر جانا - الْقَوْمُ
علیہ - قوم کا کسی طرف متوجہ ہونا -
إِصْطَفَقَ - الْعُودُ - بربط کے تاروں کا
ہلنا - الْبَحْرُ - سمندر میں تلاطم آنا -
- الْقَوْمُ - پریشان و مضطرب ہونا -
- الْأَشْيَارُ - ہوا سے ہلنا - الْنِسَاءُ
عَلَى الْمَيْتَةِ - عورتوں کا میت پر
نوحہ کرنا -

الصَّفَقُ (ہ) کونہ - جانب - دروازہ کا
پٹ - صَفَقًا الْعُنُقُ - گردن کی
دونوں جانبیں - صَفَقًا الْفَرَسَ -
گھوڑے کے دونوں رخسارے -
صَفَقَ الْجَبَلُ - پہاڑ کی سطح - جہ
صَفُوقٌ - الصَّفَقُ - دروازہ کا
پٹ -

الصَّفَقَةُ - بیع میں ہاتھ پر ہاتھ مارنا -
سودا طے کرنا -

الصَّفَقُ - گوشہ - دماغ کا پچھلا حصہ -
الصَّفَاقُ - باریک جھلی جو اوپری چڑے
کے نیچے ہوتی ہے - پیٹ پر منڈی ہوئی
جھلی - لکڑی کی ڈھال پر منڈا ہوا چمڑہ
جہ - صَفَقٌ -

الصَّفَافَةُ - اترنے والی جماعت - مصیبت -
الصَّفَاقُ - تجارتی سلسلہ میں بہت سفر
کرنے والا - بہت خرید و فروخت
کرنے والا -

الصَّفُوقَةُ - ایسا اونچا پہاڑ جس پر چڑھنا
مشکل ہو - ٹکنی بلند چٹان - نرم کمان -
جہ - صَفَقٌ -

الصَّفَائِقُ - آنے جانے والے قافلے -
الصَّفَائِقُ وَالصَّفَائِقُ - حوادث -

الصَّفِيقُ - بے حیا - بے شرم -
المَصْفَقُ - راستہ -

المَصَافِقُ - خا - مِنَ الْإِذِيلِ - کروٹیں بدل

صَفَوَانٌ وَالصَّفَوَاءُ سَخَتْ بڑا پتھر
 "فُلَانٌ لَا تَتَدَاي صَفَاتُهُ" یعنی
 فلاں بخیل ہے۔ "وَفُلَانٌ لَا تَقْدَرُ
 لَهُ صَفَاةٌ" فلاں کو کوئی دکھ نہیں
 دے سکتا۔
 الصَّفَوَانُ بھنی چٹان۔ یَوْمُ صَفَوَانٍ
 صاف دن۔
 الصَّفِيءُ مخلص دوست۔ ج۔ اَصْفِيَاءُ۔
 مؤنث۔ صَفِيٌّ وَصَفِيَّةٌ ہر خالص
 چیز۔ الصَّفِيءُ وَالصَّفِيَّةُ مِنْ
 الْقَيْنِمَةِ مال غنیمت کا وہ حصہ
 جس کو رئیس اپنے لیے مخصوص کر لے۔
 الصَّفِيَّةُ بہت دودھ دینے والی
 اونٹنی بہت پھل لانے والا درخت خروا۔
 ج۔ صَفَايَا۔
 اِلصْفَاةُ بھنی۔ صافی۔
 الْمُصْطَفَى برگزیدہ۔ چنا ہوا۔
 صَقِيبٌ دس، صَقْبًا۔ المکان نزدیک
 ہونا۔ دور ہونا (دند)
 صَقَبَةٌ (دن) صَقْبًا۔ پتھر مارنا۔ الشَّيْءُ
 جمع کرنا۔ اِلْبَاءُ۔ عمارت بلند
 اٹھانا۔ الطَّائِرُ پرندہ کا آواز
 کرنا۔
 صَاقِبَةٌ صَقَابًا وَمَصَاقِبَةٌ نزدیک
 کرنا۔ کہتے ہیں: لَقِيْنَتُهُ صَقَابًا میں
 نے اس سے مواجہت ملاقات کی۔
 اَصْقَبَةٌ نزدیک کرنا۔ اَصْقَبْتُ الشَّيْءُ
 قریب ہونا۔ کہتے ہیں: اَصْقَبْتُ
 الصَّيْدَ شکار تم سے قریب ہو گیا۔
 الصَّقْبُ م۔ ج۔ صُقُوبٌ گھریں
 سب سے لمبا کھنجر صِقَابٌ و
 صُقْبَانٌ۔
 الصَّقْبُ وَالصَّقِبُ نزدیک۔
 الصَّقْبَانِي عطر فروش۔
 الصَّقْمُ وَالصَّقْحَةُ گنج۔ اِلصَّقْمُ

بہت دودھ والی ہونا۔
 صَفِيٌّ تَصْفِيَّةٌ۔ الشَّيْءُ چیز کو صاف
 کرنا۔
 اَصْفَى اِحْفَاءً۔ فُلَانًا الْوَدَّ وَاَصْفَى
 لَهُ الْوَدَّ خالص محبت کرنا۔
 الَّذِي يَحْفُو کھودنے والے کا
 کھودتے کھودتے پتھر تک پہنچنا، جو
 کھدائی کو بند کر دے۔ اَصْفَيْتُ
 الدَّجَاجَةَ مرغی کا انڈے دینا بند
 کرنا۔ الشَّاعِرُ شاعر کا شعر کہنے
 سے رکنا۔ اَصْفَى مِنَ الْمَالِ مال
 سے خالی ہونا۔ اَبْكَا محض
 کرنا۔ راضی کرنا۔ الشَّيْءُ تمام
 لے لینا۔
 صَافِي مَصَافَاةً۔ فُلَانًا کسی سے
 خالص محبت رکھنا۔
 تَصَافَى۔ القوم ایک دوسرے کے
 ساتھ خالص محبت رکھنا۔
 اِسْتَصْفَى۔ المال سب مال لے لینا۔
 الرجل خالص دوست شمار کرنا۔
 الصَّفْوَم۔ محبت میں خلوص د۔
 وَالصَّفْوَةُ وَالصَّفْوَةُ وَالصَّفْوَةُ
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خالص اور عمدہ چیز
 الصَّافِي فا۔ صاف۔ یَوْمٌ صَافٍ
 ابرو غبار وغیرہ سے پاک صاف دن
 الصَّافِيَّةُ مؤنث الصَّافِي۔ وہ
 زمین جس کے بسنے والے چکے گئے ہوں
 یا مر گئے ہوں۔ ج۔ صَوَافٍ۔
 الصَّفْوَةُ مخلص دوست۔ صفائی کی
 طرز۔ تھوڑا پانی۔
 الصَّفَا جمع صَفَاةٌ۔ یعنی پتھر بطرس
 کا لقب (سرانی کلمہ)
 الصَّفَاةُ ج۔ صَفَا وَصَفَوَاتٌ و
 جج۔ اَصْفَاءُ وَصَفِيٌّ وَصَفِيٌّ
 وَرَالصَّفَوَانَةُ ج۔ صَفَوَانٌ و

کر سونے والا اونٹ۔
 صَفَقَ (رض) صَفَوَاتًا۔ الفرس گھوڑے
 کا تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا اور بھڑکی
 ٹانگ کے کھڑکا صرف سراٹھانا۔
 الرجل دونوں قدموں کا ایک قطار
 میں کرنا۔ بِلَا الارض زمین پر
 مے مارنا۔ د۔ مَصْفًا الطَّائِرُ
 الْحَشِيشِ اَو الْوَدِّ پرندہ کا
 اپنے بچوں کے لیے گھاس کے تنکوں یا
 پتوں کا تہ بننا۔
 صَاقَنَ۔ القوم قوم کے مقابل کھڑا
 ہونا۔ الماء بَيَّتَهُ پانی کو لوگوں
 میں تقسیم کرنا۔
 تَصَافَنَ۔ القوم الماء قوم کا آپس
 میں پانی تقسیم کرنا۔
 الصَّفَنُ خصیہ کی پھیل چھڑے کا
 دسترخوان مستی کے وقت اونٹ
 کے منہ سے نکلنے والے جھاگ۔ ج۔
 صَفْنٌ وَصَفْنٌ وَاصْفَانٌ و
 صُفْنَانٌ۔
 الصُّفْنُ مشک۔ چمڑے کی چھاگل۔
 چرواہے کا تھیلا۔
 المَصْفَنَةُ دسترخوان مستی کے وقت
 اونٹ کے منہ کے جھاگ۔ چرواہے
 کا تھیلا۔
 الصَّافِنُ فا۔ پٹلی کے نیچے کے حصہ
 کی ایک رگ۔ مِنْ الْخَيْلِ تین
 ٹانگوں پر کھڑا ہونے والا گھوڑا۔ ج
 صَاقَنَاتٌ وَمَوَافِنٌ وَصُفُونٌ۔
 صَفَا يَصْفُو صَفَوًا وَصَفَاءً وَصَفَوًا۔
 صاف ہونا۔ الْجَوُّ فضا کا ابر سے
 صاف ہونا۔ اِلْقَدَارُ ہانڈی کا
 خالص حصہ لے لینا۔
 صَفَتْ تَصْفُو صَفَوًا وَصَفَوَاتٌ و
 صَفَاةً۔ النَّاَقَةُ اونٹنی کا



<p>الصَّقْعَاءُ مُؤَنَّثٌ صَقْعَاءُ - سورج۔ الصَّاقِقُ - فَا - بہت جھوٹا کہتے ہیں۔ صَدَّ صَاقِقُ - یعنی خاموش رہ اے جھوٹے۔ الصَّاقِقَةُ - بجلی۔ الصَّقَاعُ - برقع۔ اور صنی کو چکنائی سے بچانے کے لیے سر پر باندھنے کا رومال۔ اونٹ کے منہ پر باندھنے کی جالی۔ اونٹ کی گدی پر داغ۔ الصَّقِيعُ - سبج۔ پالا۔ ایک قسم کی بھڑ۔ المَصْقَعُ - فصیح و بلیغ۔ بلند آواز والا۔ جہ۔ مَصَاقِقُ - صَوَّقَعَهُ - سر پر مارنا۔ الصَّوَّقَعَةُ - مہم۔ پگڑی سر کا وسط۔ اور صنی کو چکنائی سے بچانے کا رومال۔ الصَّقْعَبُ - لمبا۔ آواز کرنے والا۔ دانتوں سے یا دروازہ سے۔ صَقَّرَ - فِي أَذُنِهِ - کان میں چلانا۔ الصَّقْعُرُ - سو پانی۔ مٹا ہوا پانی۔ صَقَلْ رَن - صَقْلًا وَصَقْلًا - اشیاء۔ پالش کرنا۔ چلا دینا۔ صاف کرنا۔ رنگ صاف کرنا۔ صفت (صَاقِلٌ) جہ صَقْلَةٌ - صفت مغول (مَصْقُولٌ) - الدَّابَّةُ جالور کو دبا کرنا۔ کچ بالعصا۔ لاسٹی سے مارنا۔ بہ الارض زمین پر گرا دینا۔ صَقِلْ رَس - صَقْلًا - صیقِل شدہ ہونا۔ چکنا ہونا۔ الصَّقْلُ - مہم۔ گھوڑے کے پہلو کی لمبائی۔ الصَّقْلُ - پہلو سبک جانور۔ والصَّقْلَةُ کمر۔ الصَّقْلُ - مختلف چال والا۔ کم گوشت کا گھوڑا۔ الصَّقْلُ - مَاقِلٌ - کامیالغہ۔ تلوار کو تیز کرنے والا۔ جہ۔ صَيَّقِلْ و صَيَّا قِيلَةً۔</p>	<p>الصَّقْرَةُ - حوض میں بقیہ پانی۔ الصَّاقُورُ - پتھر توڑنے کا ہتھیار۔ کدال۔ (ر۔ والصَّاقِرَةُ) مصیبت، بڑی آفت۔ الصَّاقُورَةُ - کھوپری کا اندرونی حصہ۔ الصَّقَارُ - چغل خور کا فریبہ و دہانت کرنے والا۔ شیرو۔ ساز۔ شیر فروش۔ صَقْعَةُ رَف - صَقْعًا - سر پر مارنا۔ صَقْعَ بہ الارض۔ زمین پر پچھاڑ دینا۔ الوجلُ - جانا۔ راستہ سے ہٹ جانا۔ یا بھلائی و کرم کے راستہ سے انحراف کرنا۔ الجمار پکی۔ گدھے کے سر یا چہرے پر داغ لگانا۔ صَقَعُ رَف - صَقْعًا وَصَقْعًا وَصَقِيقًا - البریک مرغ کا اذان دینا۔ صَقْعًا وَصَقْعًا - بِصَوْتِهِ - آواز بلند کرنا۔ صَقَعُ رَس - صَقْعًا - الرجل۔ بے ہوش ہونا۔ الفرس والطاریر۔ گھوڑے یا پرندہ کے سر کا بیچ سے سفید ہونا۔ صَفَت (أَصْفَعُ) صَقِيعَتِ الْبِئْرُ - کنویں کا ڈھب جانا۔ صَقِيعَةٌ وَصَقِيعَةٌ - المكان۔ کسی جگہ پالا پڑنا۔ صَقَعُ - بِقُلَانٍ - کسی کے لیے قسم کھانا۔ أَصْفَعُ - الرجل۔ بیخ پر چلنا۔ الصَّقِيعُ الارض۔ پالا پڑنا۔ الصَّقَعُ - الرجل۔ بیخ پر چلنا۔ الصَّقِيعُ الارض۔ پالا پڑنا۔ الصَّقَعُ - گوشہ کنارہ۔ جہ۔ أَصْقَاءُ - الصَّقَعُ - مہم۔ سر پر بال کم ہونا یا نہ ہونا۔ سخت سردی کی بے آرامی۔ الصَّقَعُ - گنجا۔ دور گیا ہوا مسافر جس کی جگہ کا علم نہ ہو۔ الصَّقْعَةُ - گھوڑے اور پرندہ وغیرہ کے سر کے بیچ کی سفیدی۔</p>	<p>گنجا۔ مؤنث صَقْعَاءُ۔ صَقْرَةٌ رَن - صَقْرًا - بالعصا۔ لاسٹی سے مارنا۔ بہ الارض۔ زمین پر پٹک دینا۔ الججَارَةُ - پتھر کو ہتھوڑے سے توڑنا۔ صَقَرُوا صَقْرًا - النار۔ آگ جلاتا۔ صَقَرْتُ رَن - صَقْرًا وَصَقْرَةً وَ أَصْقَرْتُ - الشَّمْسُ اِدَانًا - آفتاب کا تیز گرم ہونا۔ آگ کا جلنا۔ صَقَرَتْهُ الشَّمْسُ - آفتاب کا کسی کو جھلس دینا۔ صَقَرْتُ رَن - صَقْرًا وَصَقْرًا - اللَّبَنُ - دودھ کی کھٹاس کا تیز ہونا۔ تَصَقَّرَ - شکرے سے شکار کھیلنا۔ بالمكان - ٹھیکر۔ تَصَقَّرْتُ وَ أَصْقَرْتُ - النار۔ آگ کا جلنا۔ الصَّقْرُ - مہم۔ شکار۔ جہ۔ أَصْقُرُ وَ صُقُورٌ وَصُقُورَةٌ وَصَقَارٌ وَ صَقَارَةٌ وَصَقْرٌ - الصَّقْرُ - جہ۔ صُقُورٌ وَصَقَارٌ - بہت کٹا دودھ۔ سٹرا ہوا پانی۔ الصَّقْرُ وَالصَّقْرُ - تر کھجور یا خشک انگور کا شیرہ۔ "هَذَا التَّمْرُ أَصْقَرُ مِنْ ذَاكَ" اس کھجور میں اس کی نسبت شیرہ زائد ہے۔ صَقْرُ - دوزخ۔ جہنم (غیر منفرد) سقر میں ایک لعنت۔ الصَّقْرُ - مِنَ الرُّطْبِ وَالزَّيْبِ تر کھجور یا خشک انگور جو رس نکالنے کے قابل ہو۔ اِمْرَأَةٌ صَقْرَةٌ - تیز فہم تیز نظر عورت۔ کہتے ہیں۔ جَاءَ بِالصَّقْرِ وَالْبَقْرِ اَوْ بِالْقَصَارَى وَ الْبَقَارَى - وہ جھوٹ بولا۔ الصَّقْرَةُ - پرندہ کی سبزی یا سیاہی کا سرخی یا ندی سے ملنا۔</p>
--	---	--



الصَّيْقَلُ - پالش کیا ہوا - تلوار -
 الصَّقَالُ - الصَّاقِلُ کا مبالغہ -
 صَقْلِيَّةٌ وَصَقْلِيَّةٌ - جزیرہ سلسلی جو
 اٹلی کے جنوب مغرب میں ہے -
 الصُّقْلُ - مِنَ الْخَطْبَاءِ - بلیغ مقرر -
 الصُّقْلَةُ - جس سے پالش کیا جائے -
 الصَّقْلَبُ وَالصَّقْلَبِيُّ وَالصَّقْلَابِيُّ -
 سلاوی قوم کا آدمی -
 صَلَّةٌ دَن صَلًّا - دور سے مارنا - تھپڑ مارنا -
 صَلَّ الْبَابَ - دروازہ بند کرنا -
 صَلَّ دَسَ صَلًّا - الدَّجَلُ او الفرس -
 چلنے میں گھٹنوں کا آپس میں ٹکنا -
 اصْطَلَّتْ - رُكْبَتَاہُ - چلنے میں گھٹنوں کا
 آپس میں رگڑ کھانا - اصْطَلَّتْ
 الْقَوْمُ بِالسُّيُوفِ - تلواروں سے
 لڑنا -
 تَصَاكَّتْ - الْوَكْبُ - زانوؤں کا ایک
 دوسرے سے رگڑ کھانا
 الصَّكُّ - مس - چیک - تحریری معاہدہ -
 اقرار نامہ - ج - اَصْلُكَ وَصُكُوكُ
 وَصِكَاتُ
 (اَصْلُكَ) - وہ جس کے گھٹنے چلنے میں
 آپس میں ٹکرائیں ملے ہوئے دانتوں
 اور وارڑھوں والا ہونا - مضبوط و قوی -
 مؤنث - صَكَاعٌ - ج - صَلَّ -
 الصَّكَاكُ - زور سے طمانچہ مارنے والا -
 وثیقہ نویس - چیک لکھنے والا چیک
 کی حفاظت کرنے والا - کلرک -
 الصَّكِيكُ - کمزور - ضعیف -
 الصَّكُّ - مضبوط - چٹختی -
 الصُّكُوكَاتُ - دواہم و دانیر -
 صَلَّةٌ دَن صَلًّا - مارنا - صَكَّهَ
 الْفَرَسُ عَلَى الْجَايِلِ - گھوڑے کا
 دھکم کو چبا کر گردن دراز کرنا - جیسے وہ
 اپنا غلبہ ظاہر کرے -

الصَّكْمَةُ - سخت صدمہ - الصَّوَاكِمُ
 مصائب و حوادث - صَكْمَةٌ
 صَوَاكِمُ الدَّهْرِ - اس پر زمانہ کی
 مصیبتیں پڑیں -
 صَلَّ (دَن) صَلًّا - السَّلَامُ - ہتھیار
 کی جھنکار سنائی دینا - الشَّيْءُ - آواز
 کرنا - الْمُسْتَمَارُّ - کیل کا کسی چیز میں
 ٹھونکا جانا - الایل - پیاس کی وجہ
 سے اونٹ کی آنتوں کا خشک ہو کر پانی
 پیتے وقت ان سے آواز سنائی دینا -
 السِّقَاعُ - مشک کا خشک ہونا -
 صَلُّوْا (الدَّخْمُ - گوشت کا
 بدبودار ہونا - المَاءُ - پانی کا سڑنا -
 بدبودار ہونا -
 صَلَّ (دَن) صَلًّا - الشَّرَابُ - صاف کرنا -
 الْحَبُّ الْمُخْتَلَطُ بِالْتُّرَابِ - پانی
 ڈال کر دانہ کو مٹی سے علیحدہ کرنا -
 الْحُفَّتْ - موزے میں استر لگانا -
 صَلَّتْهُمْ الصَّلَاةُ - ان کو مصیبت
 پہنچی -
 اَصْلٌ - الدَّخْمُ - گوشت کا بدبودار
 ہونا - الْقَدَمُ الْمَاءُ - زیادہ ٹھیرنے
 سے پانی کا متغیر ہونا -
 الصَّلُّ - بگڑا ہوا کھانا گوشت وغیرہ -
 الصِّلُ - ایک بہت زہریلا سانپ -
 مصیبت، ہمسرتانی، مد مقابل کہتے
 ہیں هَذَا صِلٌ ذَاكَ؛ یہ اس کا
 مد مقابل ہے - تیز تلوار - ج -
 اَصْلَالٌ -
 الصِّلُ وَالصِّلُ وَالصَّلَّةُ - ہلکی اور
 متفرق بارش -
 الصَّلَّةُ - رنگائی سے پہلے خشک چڑا -
 بدبودار ہونا - سرین - زوردار ہمگیر
 بارش، تازہ گھاس کے متفرق ٹکڑے
 ترمٹی -

الصَّلَّةُ - بدبودار ہوا - بچا ہوا پانی وغیرہ -
 الصَّلَاةُ - مصیبت - الصَّلَاةُ - چرمی
 موزے کا استر - ج - اَصْلَةٌ -
 صَلَاةٌ - الْحَبُّ - غلہ کا کھڑا کرکٹ -
 الصَّلِيلُ (دَن) - لوجہ یا تلوار کی جھنکار -
 الصَّلَالُ وَالصَّلَالُ - مِنَ الطِّينِ -
 خشک کھنکھتی مٹی جو لوہے کی طرح بجے -
 مَاءٌ صَلَّالٌ - متغیر پانی -
 الصَّلِيَانُ - ایک قسم کی نبات -
 الْمَصْدَلُ - شریف، فیاض، سردار، کثیر
 بارش -
 صَلْبَةٌ دَن صَلًّا - سولی دینا -
 الدَّخْمُ - گوشت بھونا - الْعِظَامُ
 ہڈیوں سے گودا نکالنا - صَلْبَتُهُ
 الشَّمْسُ - آفتاب کا کسی کو بھلس دینا
 صَلْبَتٌ عَلَيْهِ الْحُشَى - بخار کا چھٹ
 جانا اور تیز ہونا -
 صَلْبٌ دَن صَلًّا (دَن) صَلًّا - سولی دینا -
 سخت ہونا - عَلَى الْمَالِ - بخیل و کمبوس
 ہونا -
 صَلْبٌ - الشَّيْءُ - سخت کرنا - الشَّيْءُ -
 سخت ہونا - خشک ہونا - اللِّصُّ
 چور کو سولی دینا - الْمَسِيحِيُّ - اپنے
 اوپر ہاتھ سے صلیب کا نشان کرنا -
 اَصْلَبَتِ النَّاظَةُ - بچہ کو دودھ
 پلاتے وقت اونٹنی کا گردن کو آسمان کی
 طرف اٹھانا
 تَصَلَّبَ - سخت ہونا -
 اصْطَلَبَ - الْعِظَامُ - ہڈیوں کا گودا
 نکالنا -
 الصَّلْبُ - ریڑھ کی ہڈی - چرمی - گودا -
 ج - صَلْبَةٌ وَاصْلَابٌ - ہوز زمینیں
 عرصہ تک پڑت پڑی رہیں اور جوتی نہ
 جائیں، ان کے لیے کہتے ہیں - لَا تَهْأَ
 لَا صَلَابٌ مِنْذُ اَعْدَاءِہُ -



الصُّلْبُ - سخت - "هُوَ صُلْبٌ فِي دِينِهِ" وہ اپنے دین میں سخت ہے۔ ریڑھ کی ہڈی - جہ - أَصْلَابٌ وَأَصْلَبٌ وَ صَلْبَةٌ - کہتے ہیں "هُوَ مِنْ صُلْبِ فَلَانٍ" وہ فلان کی نسل سے ہے اور اس کی اولاد میں ہے۔
 الصُّلْبُ - قوت، حرب، موٹے پتھروں والی جگہ - جہ - صَلْبَةٌ - الصُّلْبُ - ایک پرندہ ہے۔
 الصَّالِبُ - فَا - حَتَّى صَالِبٍ - جاڑے، رزے کا بنجار - د - وَالصَّالِبُ - ریڑھ کی ہڈی۔
 الصُّلْبُ - سخت، سان - باز رکھنے کا پتھر - ریڑھ کی ہڈی۔
 الصُّلْبَةُ - چاقو پھری تیز کرنے کا پتھر - سان - صُلْبِي - سخت - سان پر رکھا ہوا۔
 الصَّلِيبُ - سولی سولی کی شکل کی چیز - جہ - صُلْبَانٌ وَصُلْبٌ - سخت سولی دیا ہوا - چربی - گودا - جھنڈا - اونٹ کا داغ - جہ - صُلْبٌ - خالص نسب والا - ذُو الصَّلِيبِ - الاصل نصرانی شاعر کا لقب۔
 الصَّلِيبِيُّ - واحد الصَّلِيبِيَّةِ - صلیب کی خاطر جنگ کرنے والا - بغیر مُصَلَّبٌ وَمُصْلَوِيٌّ - جس پر صلیب جیسا داغ ہو - مَوْنٌ - مُصَلَّبَةٌ وَ مُصَلَّبَةٌ - ثَوْبٌ مُصَلَّبٌ - وہ کپڑا جس پر صلیب کی شکل بنی ہو۔
 صَلَّتْ دَن صَلَّتْنَا - الفرس - گھوڑے کو ایڑ لگانا۔
 صَلَّتْ دَن صَلُّوتَةً - الرجل - کشادہ ہموار پیشانی والا ہونا۔
 أَصْلَت - السَّيْف - تلوار کو میان سے باہر کرنا - تلوار سوتنا۔
 لَصَلَّتْ - فِي عَدُوِّهِ - دوڑ میں دوسرے سے آگے نکل جانا۔

الصَّلْتُ - مم - چمکدار ہموار ابھری ہوئی پیشانی - د - وَالصَّلْتُ، بڑی پھری جہ - أَصْلَاتٌ - الصَّلْتُ وَالصَّلَتَانِ وَالْإِصْلِيَّتُ وَالْأَصْلِيَّتِيُّ وَالْإِصْلَاتُ وَالْمِصْلَتُ وَالْمِصْلَاتُ وَالْمَنْصَلْتُ - مِنَ الرِّجَالِ - ہادر - مِنَ السُّيُوفِ - صیقل شدہ پار ہونے والی تلوار۔
 الْمُصَالَةُ - تلواروں سے لڑنا - شاعر کا دوسرے شاعر کے شعر کو لفظاً و معنیاً چرائینا۔
 صَلَّحَ دَن صَلَّجًا - الْفِصَّة - چاندی کو بگھلانا - صَلَّجَةً بِالْعَصَا - لاٹھی سے مارنا۔
 صَلَّجَ دَن صَلَّجًا - سَمْعُهُ - بہرا ہونا۔
 تَصَالَجَ - الرجل - بہرا ہونا۔
 الصُّلْحُ - کھرے درہم - الصُّلْحَةُ - ریشم کے کپڑے کا غول - کویا - جہ - صَلَّحَ - الصَّلِيبَةُ - پگھلی ہوئی صاف خالص چاندی۔
 الصُّوْلَجَانُ وَالصُّوْلَجَانَةُ - ٹیڑھے سر والی لاٹھی - جہ - صَوَالِجَةٌ - الصُّوْلَجُ - خالص چاندی - کان کا سوراخ۔
 ٹیڑھی کڑی - الْأَصْلَكُ - بہت چمکنا۔
 صَلَّحَ دَن صَلَّحَ دَن صَلَّحًا وَ صَلَّحًا وَ صَلَّحِيَّةً - درست و ٹھیک ہونا۔
 خرابی کا دور ہونا - الرجل نیک ہونا - فِي عَمَلِهِ - کام میں درست ہونا۔
 صَالِحَةٌ صَالِحًا وَمُصَالِحَةٌ - موافق ہونا - صلح کرنا۔
 أَصْلَحَ - الشَّيْءُ - درست کرنا - بَيْنَهُمْ صلح کرانا - إِلَيْهِ - نیکی کرنا۔

تَصَالَحَ وَاصْتَلَحَ وَاصْطَلَحَ وَاصْلَحَ - القوم - رضامند ہونا۔
 اسْتَصْلَحَ - الشَّيْءُ - دوستی پا ہونا۔
 طَيِّبَ پانا۔
 الصُّلْحُ - سلامتی - رضامندی - درستی - مصلحت کا اسم (مذکر و مؤنث)، قوم مصلحٌ وَصُلُوحٌ - آپس میں موافقت رکھنے والے لوگ۔
 الصَّلَاحِيَّةُ - وہ حالت جس سے چیز کی درستی ہو - مبالغہ معرکہ کا غل کیا گیا ہے۔
 الإِصْطِلَاحُ - کسی خاص قوم یا جماعت کا کسی لفظ اور کلمہ کے معنی پر اتفاق کرنا۔
 جواصل معنی کے علامہ ہو - جہ - إِصْطِلَاحَاتٌ - الصَّالِحُ - درست، ٹھیک، نیک، حقوق و ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا - "هُوَ صَالِحٌ يَكُونُ" وہ اس کا اہل ہے اور اس کے کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، کبھی کبھی کے معنی بھی دیتا ہے "لَهُ حِطٌّ صَالِحٌ مِنَ الْآدَبِ" یعنی اس کا ادب میں کافی حصہ ہے - جہ - صَالِحُونَ وَصَلَحُوا۔
 الصَّالِحَةُ - مؤنث الصَّالِحِ - آتَنِي صَالِحَةً مِنْ فَلَانٍ - فلان کی طرف سے مجھ کو بہت نعمت یا بھلائی پہنچی۔
 الصَّلِيَّةُ - نیک - صالح - جہ - صَلَّحَاءُ - الصُّلُوحُ - صالح۔
 الْمَصْلَحَةُ - نیک تجویز - مصلحت - جہ - مَصَالِحُ - صَلَّحَ دَن صَلَّحًا - سَمْعُهُ - بہرا ہونا۔
 تَصَالَحَ - بہرا ہونا۔
 إِصْلَحَ - لَيْثُنَا - الصَّالِحُ غَارِشٌ - کالا سانپ۔
 الْأَصْلَحُ - بالکل بہرا - مِنَ الْجَمَالِ - غارشی اونٹ - مؤنث - صَلَّحَاءُ - جہ



صَلُّوْهُ (دھ) ہر اپن کھلی۔ ہبۃ
(صلو) ملک مصیبت۔
اَصْلَحَ الرَّجُلُ۔ الرجل سیدھا کھڑا ہونا۔
اَصْلَحَ وَالصَّلَاحُ وَالصَّلَاحُ وَالصَّلَاحُ
وَالصَّلَاحُ وَالصَّلَاحُ وَالصَّلَاحُ
قوی، ذہین۔ ولیر۔ ج۔ صَلَاحٌ۔
صَلَدَ (رض) صَلَوَاتُ الزَّيْنُ۔ چھتاق کا
بغیر آگ نکالے ہوئے آواز دینا۔
صَلَدَتْ اَرْضُ زَيْنٍ کاسخت ہونا۔
صَلَعَةُ۔ گنج کا چکنا۔
صَلَدَتْ رَمِي صَلَدًا۔ السَّابِقَةُ۔
جانور کا کھڑا ہونا۔ دوڑتے وقت پاؤں
زمین پر مارنا۔ الرَّجُلُ فِي الْجَبَلِ۔
پہاڑ پر چڑھنا۔ صَلَدَ السَّائِلُ۔
سائل کو کچھ نہ دینا۔ يَسِيْدِيُو۔
دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔
صَلَدَ رَكْ صَلَدَةً وَصَلَدَ تَصْلِيْدًا
کچھ سی کرنا۔
اَصْلَدَ۔ اَنْوَدَ يَغِيْرُ اَگ نکلنے کے
چھتاق کا آواز دینا۔ الرَّجُلُ۔ کسی
کی چھتاق کا آگ نہ دینا۔ اَصْلَدَتْ
الارضُ۔ زمین کاسخت ہونا۔
الصَّلْدُ۔ سخت چکنا۔ بخر زمین۔ ج۔ اَصْلَدُ
۔ فَرَسٌ صَلْدٌ۔ وہ گھوڑا جس کو پسینہ
نہ آئے یہ گھوڑے کی بری صفت ہے
داس صلد۔ وہ سر جس پر بال نہ
اگیں۔ رَجُلٌ صَلْدٌ۔ بخیل آدمی۔
جَبِيْنٌ صَلْدٌ۔ سخت پیشانی۔
اَلْاَصْلَدُ۔ بخیل، مؤنث صلداء۔ ج۔
صَلْدٌ۔
الصَّالِدُ۔ نا۔ آگ نہ دینے والا چھتاق۔
الصَّالِدَةُ۔ الصَّالِدُ کا مؤنث۔ پیسے میں
آواز نکالنے والا دانست۔ ج۔ صَوَالِدُ
۔ الصَّلْوُ۔ آگ نہ دینے والا چھتاق۔
سخت۔ اکیلا۔ بڑا بخیل۔ خشک۔ کم

پسینہ والا گھوڑا۔ دیر سے لیٹنے والی ہانڈی۔
بے برکت عورت۔
الصَّلْوَدُ۔ ٹھوس چکنا۔ الصَّلِيْدُ
اکیلا۔ الصَّلَادُ۔ بچہ والی بے دودھ
کی اونٹنی۔
الصَّلْدَاءُ وَالصَّلْدَاءَةُ۔
الصَّلْدُ۔ چھڑا پتھر۔ الصَّلْوَدُ۔ بہت
سخت۔
الصَّلِيْدُ۔ سخت، سخت سموں والا شیر۔
ج۔ صَلَادُ۔
الصَّلْوُ۔ دریا کی ایک مچھلی۔
صَلَصَ صَلَصَةً۔ اَلْجَلِيُّ اَوِ الْجَامُ
زیور یا لگام کا آواز دینا۔ بادل کا گرنا۔
گھنی کا گونینا۔ دھکی دینا۔
الصَّلَصُ۔ گھوڑے کی پیشانی گھوڑے
کی پیٹھ کا سفید حصہ۔ چھوٹا پیالہ۔ برتن
کی بقیہ چیز۔ ماہر چرواہا۔
الصَّلَصُ۔ سوکھی ہوئی بجنے والی مٹی۔
(ر)۔ وَالصَّلَامِلُ وَالصَّلَامِلُ
آواز دینے والا گدھا۔
الصَّلَاةُ۔ جس زمین پر کوئی نہ ہو۔
الصَّلَامِلُ۔ خالص النسب شریف سردار۔
اَصْلَنْتَحَتِ الْبَطْحَاءُ۔ کشادہ ہونا۔
الصَّلَاطُ وَالصَّلَاطُ۔ چڑھا۔ وسیع۔
صَلَعُ دَسْ صَلَعًا۔ سر کے اگلے حصہ کے
بالوں کا گر جانا۔ صفت (اَصْلَعُ)
ج۔ صَلَعٌ وَصَلَعَانٌ۔
صَلَعَتْ وَتَصَلَعَتْ وَانْصَلَعَتْ۔
الشَّمْسُ۔ سورج کا بادل سے نکل
کر چکنا۔ الْحَيَّةُ۔ سانپ کا صاف
ستر بغیر مٹی کے نکنا۔ تَصَلَعَتْ
السَّمَاءُ۔ آسمان پر سے ابر ہٹ
جانا۔ صَلَاحُ الشَّمْسِ۔ سورج
کی گرمی۔
الصَّلْعَةُ وَالصَّلْعَةُ۔ سر کا گنجا حصہ۔

الصَّلْعَاءُ۔ خالی بیابان مصیبت۔ ج۔
صَلَعٌ۔
الصَّلْعُ وَالصَّلِيْعُ وَالصَّلَاغُ۔ چوڑا پتھر۔
مِنَ الْأَمْكَنَةِ۔ کچھ نہ اگانے والی
زمین۔ بخر زمین۔ دَاسٌ صَلِيْعٌ۔ وہ
سر جس کے اگلے حصہ کے بال گر گئے ہوں۔
صَلَعَهُ صَلِيْعًا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصار ہے۔
صَلَعَتْ دَسْ صَلَعًا۔ ڈیگ مارنا۔ صفت
رَصِيْعٌ۔ ج۔ صَلَعُونَ وَصَلْعَاءُ
وَصَلَا فِي۔ لِصَاحِبِهِ۔ ناپسندیدہ
باتیں کرنا۔ النَّزَاةُ عِنْدَ زَوْجَتَا
عورت کا خاندان کی نظر میں کم قدر ہونا۔ صفت
صَلْفَةٌ۔ ج۔ صَلَفَاتٌ وَصَلَايِفُ
۔ السَّعَابُ۔ بہت گر جانا اور کم برسانا۔
اَصْلَفَ۔ بے خبر ہونا۔ مشکل سے سانس لینا۔
نا پسند کرنا۔ نفرت کرنا۔ نفرت دلانا۔
تَصَلَفَ۔ بیکلف ڈیگ مارنا۔ چالوسی کرنا۔
الْقَوْمُ۔ سخت زمین میں پڑنا۔
الصَّلِفُ۔ بے مزہ کھانا۔ بھاری برتن۔
سَعَابٌ صَلِفٌ۔ بہت گر جنے والا، کم
بارش والا بادل۔ اَرْضٌ صَلْفَةٌ۔ بخر
زمین۔
الصَّلِيْفُ۔ گردن کا پہلو۔ اَخَذَ
بِصَلِيْفِهِ۔ اس نے وہ سب لے لیا۔
طَعَامٌ صَلِيْفٌ۔ بے مزہ کھانا۔
اَلْاَصْلَفُ۔ سخت بخر زمین۔ ج۔ اَصَالِيْفُ
۔ الصَّلَفَاءُ وَالصَّلَفَاءُ وَالصَّلَفَاءُ
وَالصَّلَفَاءُ۔ سخت بخر زمین۔ ج۔
الصَّلَا فِي۔
الصَّلَفُ۔ فامیری کی نافرمانی کرنے والا۔
صَلْفَعٌ۔ محتاج و مفلس ہونا۔ دَاسَةٌ۔
سر مونڈنا۔
صَلَقَ دَسْ صَلَقًا۔ الدجل۔ مصیبت
میں چلانا۔ صَلَقَهُ بِالْعَصَا۔ لاٹھی
سے مارنا۔ صَلَقَتُهُ الشَّمْسُ۔

سورج کا کسی کو گرمی سے تکلیف پہنچانا۔
 صَلَوَاتُ رَحْمَةٍ صَلَوَاتُ نَابِلَةٍ۔ دانت پسینا۔
 تَصَلُّقٌ۔ المریض۔ بیمار کا دروسے
 بیچ و تاب کھانا۔ المرافقة عورت کا
 دروزہ میں مبتلا ہونا۔
 اصْطَلَقَ۔ البعید بنایہ۔ اونٹ کا
 دانت پسینا۔
 الصَّلَاحَةُ۔ ایک جگہ پر زیادہ مدت ٹھہرا
 ہوا پانی۔
 الصِّلَیْ۔ مہم۔ زور کی آواز۔
 الصَّلَیْ۔ ہموار زمین۔ جہ۔ اصْلَاقٌ۔
 جہ۔ اصْلَابُیْ۔
 الصِّلَیْقُ۔ چکنا۔ الصِّلَیْقَةُ۔ چپاتی،
 پتلی روٹی گوشت کا بھنا ہوا ٹکڑا۔ جہ۔
 صَلَاقٌ۔
 البِصْلَاقُ۔ البِصْلَاقُ۔ مِنَ الْخُطْبَاءِ
 بلیغ مقرر و واعظ جہ مصالِق و
 مَصَالِیْقُ۔ المَصَالِیْقُ۔ بڑے بڑے
 پتھر۔ بکے پھلے اونٹ۔
 صَلَاقٌ۔ محتاج و مفلس ہونا۔ سر مونڈنا۔
 سخت آواز نکالنا۔
 الصَّلَاقُ۔ خالی۔ کہتے ہیں۔ "مکان صَلَاقٌ"
 وَصَلَقٌ بَلَقٌ۔ یعنی خالی جگہ۔
 صَلَحَ دَنٌ مِنْ صَلَحَاتٍ وَصَلَحَ۔ الشَّيْءُ
 چڑھ کر بڑے کاٹنا۔ ناک کان جوڑے کاٹنا۔
 اصْطَلَمَ۔ جڑے اکھڑنا۔
 الصَّلَمُ وَالصَّلَمَةُ۔ مضبوط اور ہموار
 لوگ۔ واحد صَلَامٌ الصَّلَامَةُ
 وَالصَّلَامَةُ وَالصَّلَامَةُ۔ لوگوں
 کی جماعت، عمر سخاوت و بہادری میں
 برابر لوگ۔ جہ۔ صَلَامَاتٌ وَصَلَامَاتٌ
 وَصَلَامَاتٌ۔ رجلٌ اَصْلَمُ
 الاَذْنَيْنِ کسی کے دونوں کان ایسے
 کٹے ہوئے ہوں کہ گویا غفلت ہی سے ایسے
 ہیں۔ مَوْنٌ۔ صَلَمًا۔ جہ۔ صَلَمٌ۔

الصَّلَامُ۔ تلوار سخت کام مصیبت۔ دن
 میں ایک بار کا کھانا۔ وَقْعَةٌ
 صَلَمَةٌ۔ جڑے اکھڑ دینے والی
 جنگ۔
 صَلَمٌ۔ مفلس و محتاج ہونا۔ الداس
 سر مونڈنا۔ الشَّيْءُ۔ جڑے اکھڑنا۔
 چکنا کرنا۔ کہتے ہیں۔ "هُوَ صَلَمَةٌ"
 قَلَمَةٌ۔ وہ اور اس کا باپ غیر
 مشہور ہیں۔
 اصْلَحَتِ۔ الشَّيْءُ۔ دراز ہونا۔
 الصَّلَحُ وَالْمُصْلَحَةُ۔ لمبا آدمی۔
 الصَّلَحَةُ۔ بڑا گھر۔
 الصَّلَحُ۔ بڑی چٹان مضبوط اونٹنی۔
 اصْلَحَهُ۔ سخت ہونا۔ الصِّلَامُ۔
 بہادر جہی بشیر۔
 صَلَاةٌ یَصْلُو صَلَوًا۔ فَلَائًا۔ پیٹھ کے
 درمیان مارنا۔ صَلَیْتُ تَصْلُو صَلَاةً
 وَأَصْلَحْتُ اصْلَاةً۔ النَّاظَةُ۔
 جھنکے کے قریب ہونے کی وجہ سے اس
 کے در و دم کے درمیان کے حصہ کا
 ڈھیلہ ہونا۔
 صَلَی۔ صَلَاةً۔ دعا کرنا۔ نماز پڑھنا۔
 اَللّٰهُ عَلَیْہِ۔ برکت دینا۔ جہر تہن
 چاہنا۔ اچھی تعریف کرنا۔ تَصْلِیَّةٌ
 الفرس۔ گھوڑ دوڑ میں گھوڑے کا
 دوسرے نمبر پر ہونا۔ صَفْعٌ (مَصْلُ)
 الصَّلَامُ۔ پیٹھ کا درمیان۔ جہ۔ صَلَوَاتٌ
 وَاصْلَاةٌ۔ الصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ
 وَاعَا۔ نماز۔ تَسْبِیحٌ۔ مِنَ اللّٰهِ۔
 رحمت۔ جہ۔ صَلَوَاتٌ۔
 الصَّلَیْ۔ نماز پڑھنے کی جگہ۔
 صَلَی یَصْلُو صَلَاةً۔ اللّٰحْمُ گوشت بھونا
 گوشت۔ دَمْلُیْ۔ فَلَائًا النَّارُ و
 فِیْہَا وَعَلِیْہَا۔ آگ میں ڈالنا۔
 الرجل۔ مدارات کرنا یا دھوکا دینا۔

فریب دینا۔ لِلصَّیْدِ۔ شکار کے لیے
 جال لگانا۔
 صَلَی دَس، صَلَی وَصَلَی وَصَلِیًا وَصَلِیًا۔
 النار و بھجا۔ آگ کی گرمی برواشت
 کرنا یا آگ میں جلنا۔ الاَمُورُ بِالْاَمْرِ
 معاملہ کی سختی برواشت کرنا۔
 صَلَی۔ الْعَصَا بِالنَّارِ لِادْعَى النَّارِ۔ لالچی کو
 آگ سے تپا کر نرم کرنا، سیدھی کرنا۔
 صَلَی وَاصْلَی۔ یَدَةً۔ ماتہ تاپنا۔
 اصْلَاةٌ۔ النار۔ آگ میں ڈالنا۔
 تَصْلُو تَصْلِیًا۔ النار و بالنار۔ آگ کی
 حرارت برواشت کرنا، آگ سے تاپنا۔
 عَصَاةٌ عَلَی النَّارِ۔ لالچی کو آگ پر
 تپانا۔
 اصْطَلَى اصْطَلَاةً۔ بالنار۔ آگ تاپنا۔
 کہتے ہیں۔ "فَلَانٌ لَا یَصْطَلِیْ بِنَارِہِ"
 فلاں ایسا بہادر ہے کہ اس کا مقابلہ
 نہیں ہو سکتا۔
 الصَّلَاةُ وَالصَّلَی۔ آگ یا بڑے پیمانے
 کی آگ۔ اندھن۔
 الصَّلَابَةُ وَالصَّلَاةُ۔ پیشانی خوشبو
 کوٹنے کا بٹا۔ بیل جس پر چیزیں کوٹیں۔
 جہ۔ صَلَی وَصَلِی۔
 الصَّلِیَّانِ۔ ایک قسم کی گھاس۔
 الصَّلَاةُ وَالصَّلَی۔ شکار کرنے کا جال
 شکار کرنے کا بھندا۔ جہ۔ صَلَی۔
 کہتے ہیں۔ "لَا تَلْشِیْطَانِ تَخْشَا
 وَمَصَالِیْ۔ شیطان کے بہت سے
 حال اور بھندے ہیں۔
 صَدْرٌ، صَدْرًا۔ القَارُورَةُ۔ شیشی
 کو بند کرنا۔ الجورح۔ زخم پر پریپ
 لگا کر باندھنا۔ عَزِیْمَةٌ۔ پکا
 ارادہ کرنا۔
 صَدْرٌ۔ الرجلُ بِمَجْزِ۔ پتھر سے مارنا۔
 صَدْرٌ، صَدْرًا وَصَدْرًا۔ اونچا سننا۔ یا



چھتہ پار گزربانے والی ضرب۔
 الْمُصْمِتُ۔ فا۔ کتے ہیں "هُوَ يَفْكُو إِلَى"
 غیر مصمت۔ یعنی جو اس کی آواز نہ
 سنے اس سے شکایت کرتا ہے
 الْمُصْمِتُ۔ مفع۔ بطوس۔ بَابُ مُصْمِتٍ۔
 بند دروازہ جس کے بند ہونے کی جگہ
 کا پتہ نہ ہو۔ حَائِطٌ مُصْمِتٌ۔ وہ
 دیوار جس میں فرج نہ ہو۔ فَرْسٌ
 مُصْمِتٌ۔ یک رنگا گھوڑا۔ رِثَاءٌ
 مُصْمِتٌ۔ وہ برتن جس پر چاندی کی
 قلعی نہ ہو۔

صَمَحَةٌ رِفْضٌ صَمَحًا۔ الْحَرُّ غَرَمِي
 کا داغ کو گھٹلا دینا۔ كَأَبَ السَّوْطِ
 کوڑے سے مارنا۔ صَمَحَ فَلَانًا۔
 سختی سے سوال کرنا۔

الصَّمَاحُ۔ بدبودار پسینہ، داغ دینا، گھیل ہوئی
 چربی جو پاؤں کی پٹھن پر رکھی جائے۔
 الْأَصْمَحُ۔ شجاعت کے سبب بہادروں
 کے سر پر ضرب لگانے والا۔ يَوْمٌ
 صَارِعٌ وَمَقْمُومٌ۔ سخت گرمی کا دن۔

الصَّمَخَاءُ وَالصَّمَخَاءَةُ۔ سخت زمین۔
 صَمَخَةٌ (ن) صَمَخًا۔ کان کے سوراخ
 پر مازنا۔ صَمَخَةُ الْفَقْءِ۔ ناک توڑنا۔

الصَّمَخَةُ۔ ایک منجذیز جو بکری کے تھنوں میں
 بچہ دینے کے بعد ہوتی ہے اور اس کے
 نکلنے کے بعد دودھ صاف ہو جاتا ہے۔

ضرب جس سے چہرے پر نشان بڑ جائے۔
 الصَّمَخُ۔ جہ۔ صَمَخٌ وَأَصْمَخَةٌ وَ
 الْأُصْمُومَةُ۔ کان کا سوراخ۔ مَكْرَبٌ
 اللَّهُ عَلَى صَمَاحِهِ۔ اللہ اس کو

سلانے۔

الصَّمَاحُ۔ کم پانی والا کنواں۔ جہ۔ صَمَخٌ
 صَمَخًا۔ غصہ سے پھلنا۔

صَمَدٌ (ن) صَمَدًا وَصَمَدًا۔ فَلَانًا
 وَلَهُ وَالْيَهُ۔ قصہ کرنا۔ كَأَبِ الْعَصَا

بہتری کی امید نہ ہو۔ شَهْرٌ آصَحُّ
 ماہِ رَجَبٍ۔

الصَّمَاءُ۔ مَوْنُ الْأَصَحِّ۔ سخت زمین
 بڑی مصیبت۔ جہ۔ صَمَدٌ۔

الصَّمَائِدُ وَالصَّمَائِنُ۔ ہر سخت پتھر کی
 زمین۔

الصَّمِيمُ۔ فا۔ ثابت قدم۔ کام میں نہ
 رکنے والا۔

صَمَاءُ رَفٌ صَمَاءٌ طُلُوعُ كَرْنَا۔ فَلَانًا
 عَلَيَّ الْأَمْرِ۔ اکسانا۔ برا لگینے کرنا۔

صَمَتٌ (ن) صَمَتًا وَصَمُوتًا وَصَمَاتًا۔
 خاموش رہنا۔

صَمَتٌ وَأَصَمَتٌ۔ خاموش رہنا۔
 صَمَتَةٌ وَأَصَمَتَةٌ۔ خاموش کرنا۔

أَصَمَّتِ الْعَلِيلُ۔ بیمار کی زبان کا
 بند ہونا۔

صَمَتَتِ۔ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا عَمْرًا كَالْبَنِي
 بچہ کو کچھ کھلا کر بھلانا۔

الصَّمَاتُ مِمَّ۔ خاموشی، پیاس کی سرعت۔
 رَمَاءٌ يَصْمَاتُهُ۔ اس نے اس کو

چپ کر دیا۔ هُوَ عَلَى صَمَاتٍ
 الْأَمْرِ۔ وہ کام کرنے کو تیار ہے۔

بَاتٌ مِنَ الْقَوْمِ عَلَى صَمَاتٍ۔
 قوم سے قریب ہوا۔

الصَّمَاتَةُ وَالصَّمَاتَةُ۔ وہ کھانا وغیرہ
 جس سے بچہ چپ کرایا جائے، اور

بھلایا جائے۔

الصَّمَاتُ۔ فا۔ گاڑھا دودھ۔ مِتْ
 الْحَالِ۔ سونا چاندی، مال ناطق، حیوان

کہتے ہیں "مَا لَئِذَا نَاطِقٌ وَلَا صَامِتٌ"
 یعنی اس کے پاس کچھ نہیں، نہ خاموش

جائداد ہے نہ بولنے والی۔
 الصَّمَاتُ وَالصَّمَاتُ۔ بہت چپ رہنے

والا۔ چپ چاپ رہنے والا۔

الصَّمَاتُ۔ بوجھل زہ۔ شہد سے بھرا ہوا

بالکل نہ سننا۔ بہرا ہونا۔ صَفَتُ (أَصَمُّ)
 مَوْنُ صَمَاءُ۔ جہ۔ صَمٌّ وَصَمَانٌ۔

صَمَدٌ صَدَاةٌ۔ ہلاک ہو گیا۔ مر گیا۔
 صَمَمَةٌ۔ بہرا کرنا۔ صَمَمَ عَلَى الْأَمْرِ

وَفِيهِ۔ اپنی رائے پر چلنا اور منع
 کرنے والے کی بات پر کان نہ دھرنا

گو یا بہرا بن جانا۔ السَّيْفُ تَلَوَّارٌ
 کا بڑی سے پار ہو جانا۔ صَمَمَةٌ

الْحَدِيثُ۔ کلام کو یاد کرنا۔ صَمَمَ
 الشَّيْءُ۔ چیز کو دانتوں سے کاٹنا۔

أَصَمَّ۔ بہرا ہونا۔ بہرا کرنا۔ بہرا پانا۔
 الْقَارُوقَةُ۔ شیشی کو بند کرنا۔

أَصَمَّ اللَّهُ صَدَايَ فَلَانٍ۔ اللہ اسے
 ہلاک کرے۔

تَصَامٌ۔ عَنِ الْحَدِيثِ۔ بہرا ہونا
 الصَّمَدُ۔ سخت مصیبت، بشیر۔

الصَّمَاتَةُ شَجَاعٌ۔ شیر، نرسانپ۔ مادہ
 سیبی، شیشی وغیرہ کا ڈاٹ۔ جہ۔

صَمَمٌ۔

الصَّمَامُ مِمَّ۔ بہرا بن۔ رَجُلٌ صَمَمٌ
 بکے ارادہ کا آدمی۔

صَمَامٌ۔ سخت مصیبت کا علم ہے اور
 امر کے معنی میں بھی آتا ہے۔

الصَّمَامُ۔ جہ۔ أَصَمَةٌ فَا لِيَوْمَامَةٍ۔
 شیشی کا ڈاٹ۔

الصَّمَامُ عَضُوٌّ قَامٌ رُكْنٌ وَآلِي بَدِي۔
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہر چیز کا خالص حصہ۔

مِنَ الْبَرِّ وَالْحَرِّ۔ سخت سردی
 یا گرمی۔ هُوَ صَمِيمٌ الْقَوْمِ۔ وہ

قوم کا اصل ہے۔
 الْأَصَمُّ مَطْوَسٌ مَضْبُوطٌ حَجَرٌ آصَمٌ

وَصَخْوَةٌ صَمَاءُ۔ مَطْوَسٌ پتھر۔
 رُمَحٌ آصَمٌ۔ مضبوط نیزہ۔

رَجُلٌ آصَمٌ۔ وہ آدمی جو اپنی
 خواہش کا بندہ ہو اور اس سے کوئی



صَنْجَعَان، صُنُوجَا - بِالْعَصَا - لَأُطَى
سے مارنا۔

صَنْجَعٌ تَصْنِيجًا - بِه - بچھاڑنا۔

الصَنْجَعُ - ج - صُنُوجٌ - جابجہ، مجیرا،
جنگ۔ "مَا أَدْرِي أَيَّ صَنْجَعٍ هُوَ"
میں نہیں جانتا وہ کس قسم کا آدمی ہے۔

الصَّنَابُجُ وَالصَّنَاجَةُ - جابجہ بجانے
والا۔ صَنَاجَةُ الْعَدَبِ - جاہلیت
کا شاعر، اسی قیس کا لقب۔ صَنَاجَةُ
الْجَيْشِ - فوجی طبل۔

الصُنْدِيدُ - مِنَ الرُّيُوجِ أَوِ الْبُرُوجِ -
تیز ہوا یا ٹھنڈ - مِنَ الْغَيْثِ مَوْتٌ
موتی بوندوں کی بارش۔ ر - وَالصُّنْدِيدُ
بہادر سردار۔ ج - صُنَادِيدُ -

الصُّنَادِيدُ - مہیتیں، لشکر کی جماعت۔
الصُّنْدُوقُ - صندوق۔ ج - صُنَادِيقُ -

الصُّنْدَلُ - ایک خوشبودار لکڑی کا درخت۔
الصَّنَادِلُ - بڑے سرو والا۔

الصُّنْدَلَانِيُّ - عطار۔ ج - صُنَادِلَةٌ -
الصَّنَارُ وَالصَّنَارُ - چنار کا درخت (کہ

دخیل ہے)

الصَّنَارَةُ - نیکے کے سرے پر مڑا ہوا ہوا۔
مچھلی پکڑنے کا کاٹا۔ بنی۔ ج -

صَنَانِيْرُ - رجلٌ صَنَارَةٌ وَصَنَارَةٌ -
بد خلق آدمی۔ ج - صَنَانِيْرُ -

الصُّنُورُ - بخیل۔ بد خلق۔

صَنَعُ رَفٍّ صَنَعًا وَصَنَعًا - الشَّيْءُ - بنانا
- إِلَيْهِ مَعْرُوفًا - کسی کے ساتھ

بھلائی و احسان کرنا۔ بِه صَنِيعًا
قَبِيحًا - کسی کے ساتھ برائی کرنا۔

صَنَعًا وَصَنَعَةً (الْفَرْسُ - گھوڑے
کو اچھی تربیت کرنا۔

صَنَعٌ - الشَّيْءُ - اچھی کاریگری سے خوبصورت
بنانا۔ زینت دینا۔

أَصْنَعُ - سیکھنا۔ مضبوطی سے کام کرنا۔ دوسرے

الصَّنُ - روٹیاں رکھنے کی ڈھکنے دار ٹوکری۔
ج - صَنَاتٌ -

الصَّنُ - پشم پر لگا ہوا پیشاب جو بہت
مڑتا ہے۔ سردی کے آخری سات دنوں
کی ابتدا۔

الصَّنَاتُ - ج - آصِنَّةٌ وَالصَّنَّةُ -
گندہ بغلی، بدبو۔

الصَّنَاتُ - بہادر، شجاع۔ - الْأَصَنُ -
بے پرواہ۔ غافل۔

الصَّنَابُ وَالصَّنَابَةُ - لمبی پیٹھ اور
پیرٹ والا۔

الصَّنَابُ - یعنی جراثی اور کشمش یا زیتون اور
رائی سے بنائی جاتی ہے۔

الصَّنَابِيُّ - بھیدی مائل بھدے رنگ والا۔
صَنْبَرَتٌ صَنْبَرَةٌ - الْخُلَّةُ - درخت
خرما کا پھل اور پتلے تنے والا ہونا۔

الصَّنَبَرُ - پتلی کزور چیز۔
الصُّنْبُورُ وَالصُّنْبُورُ - کم پھل، پتلے

تنے والا درخت خرما۔ درخت خرما کی جڑ
سے دوسرے درخت خرما کا بغیر بوئے

ہوئے پھوٹنا۔ الصُّنْبُورُ - کزور۔
ذیل، لاوارث آدمی، کمینہ، پھوٹا بچہ۔

مہیت سرد ہوا گرم ہوا (مذہب) حوض
میں پانی نکلنے کی نالی۔ ج - صَنَانِيْرُ -

الصَّنَبَرُ - سرد و گرم ہوا۔ (مذہب) سردی کے
آخر سات دنوں میں دوسرا دن۔ ج -

صَنَابِرُ - صَنَابِرُ الْإِشْتَاءِ - جاڑے
کی شدت۔

الصُّنُورُ - چڑھ کا درخت۔ الصُّنُورِي
صنوبر کے پھل کے مشابہ گول لپا خروطی

صَنْبَعٌ - الْبَيْضُ - سوال کے وقت بخیل
کا منقبض ہونا۔

أَصْنَلْتُ - الشَّيْءُ - محکم و مضبوط کرنا۔
الصُّنُوتُ - شیشی کا غلاف۔ ج -
صَنَانِيْتُ -

ہونا۔ الْجَرْحُ - زخم کا پھولنا۔
الصَّحْمُوكُ وَالصَّحْمِيْكُ - جاہل، شرکی

طرف جلدی کرنے والا۔ قوی، مضبوط۔
سخت و ظالم۔ لیس واری چیز۔

صَحْلٌ دَنٌ صَحْلًا وَصَحْلًا - الشَّيْءُ -
سخت ہونا، خشک ہونا۔ الرجلُ عَنِ

الطَّعَامِ - کسی کا کھانے سے رکنا۔
صَحْلَةٌ بِالْعَصَا - لَأُطَى سے مارنا۔

أَصْحَلْتُ - الصِّيَامُ - روزوں کا کسی
کو لاغر کر دینا۔

إِصْحَامٌ - سخت ہونا۔ الثَّيَابُ - نباتات
کا گھٹنا ہونا۔

الصَّحْمُوكُ - مضبوط جسم کا۔
الصَّحْمَانُ وَالصَّحْمَانُ - خشک، سوکھا ہوا۔

الصَّحْمَانُ - غصہ سے پھولنے والا۔
الصَّحْمَانَةُ - مہیت۔

صَحَى يَصْحَى صَحْيًا - الرجلُ - پلٹنا۔
جلدی سے کوونا۔

صَحَى يَصْحَى صَحْيًا - الْأَمْرُ فَلَانَا - کام
کسی پر آپڑنا۔ الصَّيْدُ - شکار کا

سامنے مرجانا۔
أَصْحَى إِصْحَاءً - الرجلُ - جلدی کرنا۔

الصَّيْدُ - شکار کو تیرانا اور اس کا
وہیں ٹھنڈا ہو جانا۔ الْفَرْسُ عَلَى

إِلْجَامِهِ - گھوڑے کا لگام کو چبانا
اور چلنا۔

لِصَحَى الْإِصْحَاءِ - عَلَيْهِ - گرنا۔ الطَّائِرُ
پزندہ کا ٹوٹ پڑنا۔

الصَّحْمِيَانُ - سچا اور بچا ہوا حملہ کرنے والا۔
بہادر۔ ج - صَحْمِيَانُ -

أَصَنَ - گندہ بغل ہونا، بکھرے ناک چڑھانا۔
الْمَاءُ - پانی کا خراب ہونا۔ اللَّحْمُ

گوشت کا بدبو دار ہونا۔ عَلَى الْأَمْرِ -
اصرار کرنا۔ الرجلُ - خاموش ہونا
غصہ سے بھر جانا۔

کی مدد کرنا۔

صَاعَةً مُصَانَعَةً - نرمی کرنا۔ مبادات کرنا۔ رشوت دینا۔ عین الشئ۔ دھوکا دینا۔ الوجل۔ رفیق بنانا۔ تَصَنَع - بناوٹ کرنا۔ بناوٹی مزین ہونا۔ اصْطَنَعَ - شیشا کسی چیز کے تیار کرنے یا بنانے کا حکم دینا۔ عِنْدَكَ صِنْعَةٌ - نیکی کرنا۔ اَدَب دینا۔ اُنْهَسَهُ - اپنے لیے چن لینا۔ خُلَانٌ - خیراتی کھانا پکانا۔ الرزق پیش کرنا۔

اِسْتَصْنَعَتْ - الشئ۔ کسی چیز کے بنانے کے لیے کہنا۔ الصنْع - مم۔ ایک چھوٹا جانور۔ صَنَعُ الیَدَیْنِ - کاریگر، اچھا دستکار۔ الصنْع - مہر، عمل، احسان، رزق۔ الصنْع بنا ہوا کپڑا۔ پگڑی، حوض، قلعہ، گوشت بھوننے کی سیخ۔ درزی۔ جہ۔ اصْنَاعُ الصنْعَةُ - مم۔ کام، پیشہ، کاریگری۔ صِنْعَةُ الفریس - گھوڑے کو سدھانے کا ہنر۔

الصنَاع - پانی کو وقتی طور سے روکنے کے لیے نالی میں لگائی ہوئی لکڑی۔ رجلُ صِنَاعِ الیَدَیْنِ و صَنَعُ الیَدَیْنِ - کاریگری میں ماہر۔ شاعر بلخ کے لیے کہتے ہیں "هُوَ صَنَعُ اللِّسَانِ وَ لَهْ لِسَانٌ صُنْعٌ"۔

الصنَاعَةُ وَالصَّنَاعَةُ - ہنر، پیشہ، محنت کاریگری۔ کیفیت عمل سے تعلق رکھنے والا علم۔ بعض کے نزدیک صِنَاعَةٌ محسوسات کے لیے ہے اور صَنَاعَةٌ معانی کے لیے۔ جہ۔ صِنَاعَاتٌ وَ صَنَائِعُ -

الصنَاعِیُّ - مصنوعی۔ ضد طبعی۔

الصنِیْعُ - مص۔ بنائی ہوئی چیز۔ میقل ضد

تکوار۔ تیر، عمدہ صاف کپڑا۔ سدھا ہوا گھوڑا۔ کھانا۔ احسان۔ فُلَانٌ صَنِیْعٌ - فلاں میرا تربیت یافتہ ہے۔ جہ۔ صُنْعٌ - قوم، صنّعی و صَنّعی و صُنّعی الاییدی۔ کام کے ماہر لوگ۔

الصَنِیْعَةُ - احسان۔ جہ۔ صَنَائِعُ - الصنایع - فنا۔ ہاتھ سے کام کرنے والا۔ جہ۔ صُنَاعٌ -

الصنَاعَةُ - پانی کو روکنے کے لیے نالی میں لگانے کی لکڑی۔

الصنْعَةُ وَالْمَصْنُوعَةُ وَالْمَصْنَعُ - بارش کا پانی جمع کرنے کا حوض۔ جہ۔ مَصَائِعُ - المصایع - گاؤں، قلعے، محلات۔

الصنْعَةُ - کھانے کی دھوت۔ صَنَفٌ - الشئ۔ منفین بنانا۔ ایک دوسرے سے میز کرنا۔ الکتاب - کتاب تصنیف کرنا۔ الشجر - درخت کا پتے نکالنا۔ الثمر - کھجور کا کچھ کچھ پکنا۔

تَصَنَّفَ - الشجرُ او اللبّات - درخت یا نباتات کا پتے نکالنا مختلف قسم ہونا۔ تَصَنَّفَتِ الشَّفَةُ - ہونٹ پھٹنا۔

الصنْفُ - مفت۔ صَنَفُ الثوب - کپڑے کا کنارہ۔ (و الصنْفُ) نوع، قسم۔ جہ۔ اصْنَافٌ وَ صُنُوفٌ - الصنْفَةُ وَالصَنِيفَةُ - من الثوب۔ کپڑے کا حاشیہ۔

الاصْنَفُ - وہ شتر مرغ جس کی ٹانگیں چھل ہوئی ہوں۔ جہ۔ صُنْفٌ -

الصنایف - ہر چیز کا اصل۔

صَنِیقٌ - صَنِیقٌ جَسَدٌ او ابطہ - جسم یا بھل کا بہت بدبودار ہونا۔ صفت

(صَنِیقٌ)

اصْنَقٌ - علیہ۔ اصرار کرنا۔ فی مآلہ۔ اچھی طرح سے عمل کرنا۔

الصنْقُ - مم۔ بغل کی تیز بدبو۔

الصَنِیقُ - بدبودار۔

المصانِقُ - سخت بدبودار۔ جہ۔ صَنِیقَةٌ

المُصْنِقُ او المِصْنَقُ - اونٹوں کا اچھا خادم۔

صَنَمٌ - دس، صَنَمًا - الجسد - غلام کا مضبوط و قوی ہونا۔ صفت د صَنِیقٌ

مَوْزٌ صَنِیقٌ - جہ۔ صَنِیقَاتٌ -

الدرائحہ - بوکا خراب ہونا۔

صَنَمٌ - بھانا۔ بُت بنانا۔

الصنَمُ - بہت۔ جہ۔ اصْنَامٌ -

الصنَمَةُ - جانور کے پر کا قلم۔ مصیبت۔

اصْنَى اصْنَاءً وَ تَصْنَى تَصْنِیًّا -

حوض کی وجہ سے ہانڈی کے پاس بیٹھ کر کتاب بنانا۔ گوشت بھوننا، یہاں تک کہ راکھ لگ جائے۔ اصْنَى الذخل - درخت خرم کا جڑ سے دوشاخیں نکالنا۔

الصنَاءُ وَالصَنِی - راکھ۔

الصنُو - دوپٹاڑوں کے درمیان گہرائی جس میں تھوڑا پانی بہتا ہو۔ جہ۔ صُنُوٌ -

الصنُو وَالصِنُو - سگا بھائی، بیٹا، چچا۔

مَوْزٌ صِنُوَةٌ وَ صُنُوَةٌ - جہ۔ اصْنَاءُ

و صِنَوَانٌ - ایک جڑ سے دو یا دو سے زائد کھجور کے درخت چھوٹیں تو ہر ایک کو صِنُو یا صِنُو کہتے ہیں۔ تنغیہ۔

صِنَوَانٌ وَ صَنِیَانٌ - بٹھلیٹ صاد

جہ۔ صِنَوَانٌ -

الصنُوَّةُ وَالصِنُوَّةُ - پردہ۔ دھند کا قلم۔

الصافی - خدمت کے لیے غلام۔ الصنایہ

تمام مکمل۔

صَلَّ - اسم فعل، یعنی چپ رہ۔ خاموش

ہو و مذکر مَوْزٌ و جمع کے لیے یکساں ہے،

صَہْب دس، صَہْبَا و صَہْبَة و
صَہْبُوْبَة وَاَصْهَابَ وَاَصْهَابَ
الشَّعْرُ۔ بالوں کا سرخ یا سرخ سفید
ہونا۔ صفت (اَصْهَابُ)
اَصْهَابُ۔ ایک جگہ جس کی طرف اونٹ
منسوب ہوتے ہیں۔
اَصْهَابِیُّ۔ موضع صہاب کی طرف
منسوب اونٹ جو بہت سفید ہو۔
سخت۔ الموت، اَصْهَابِی
سخت قسم کی موت۔
الصَّہْبُ۔ گرمی کی تیزی۔ گرم دن، لبا
آدمی۔ سخت، پتھر، ہموار زمین۔ دھوپ
کی وجہ سے ایسی گرم زمین جس پر گوشت
بھن جائے۔ جہ۔ صَہْبَاہُ۔
اَلْاَصْهَابُ۔ سرخی ملی سفیدی۔ ٹھنڈا دن
شیر۔ اَصْهَابُ السَّیَالِ۔ دشمن
موت۔ صَہْبَاءُ۔ جہ۔ صَہْبُ۔
الصَّہْبَاءُ۔ اَلْاَصْهَابُ۔ کا موت، شراب
المُصْهَبُ۔ چربی ملا گوشت۔ نیم بریاں
گوشت۔
صَهْدَتْہُ دَف، صَهْدًا۔ الشَّمْسُ
آفتاب کا کسی کو بھلنا۔
الصَّهْدَانِ۔ گرمی کی تیزی۔
الصَّہْدُ وَالصَّہْدُ۔ گرمی کی تیزی
سبے آب و گیاہ بیابان۔ متحرک سراب۔
الصَّہْدُ۔ جیم۔
صَهْرَدَف، صَهْرًا بکھلانا
صَهْرَتْہُ الشَّمْسُ۔ سورج کا
گرمی پہنچانا۔ صَهْرَ الشَّیْءِ۔ بکھلی
ہوئی چربی ملنا۔ اَلْخَبْرُ۔ بکھلی ہوئی
چربی کا سالن بنانا۔ صفت مفعول۔
صَہْرِدُ مَضْہُورٌ۔ فَلَانًا یَا لَیْمِیْنِ
سخت قسم کھلانا۔ الشَّیْءِ۔ قریب
و نزدیک کرنا۔
صَاهِدٌ مَّصَاهِرَةٌ۔ القَوْمَ دَفِی

القَوْمَ دَفِی وَاَصْهَرَّ بَہْمُ دَالِیْہِمُ
وَفِیْہِمُ۔ سُسْرِنَا۔ اَصْهَرَّ
الْجَیْشُ لِلْجَیْشِ۔ ایک لشکر کا
دوسرے لشکر سے قریب و نزدیک ہونا
اَصْهَرَّ۔ قریب و نزدیک کرنا۔
اِنْصَهَرَ۔ الشَّیْءُ۔ بکھلنا۔
اَصْطَهَرَ۔ الشَّیْءُ۔ بکھلانا۔ اَصْطَهَرَ۔ گرم
اَلْصَّہْرُ قُرَاتِ، قِرْدَا دَا دِیَا ہِنُوْی۔ جہ۔
اَصْهَارٌ۔ مَوْتٌ صَہْرَةٌ۔
اَلْصَّهَارَةُ۔ بکھلانی ہوئی چیز۔ چربی کا ٹکڑا۔
بڈی کا ٹکڑا۔
اَلْصَّہْرُ۔ بکھلانے والا۔ گوشت بھوننے
والا۔ جہ۔ صَہْرُ۔
اَلْصَّہْرِیُّ۔ بکھلنے والا۔
صَهْرَجَ۔ اَلْغُرْفَةُ۔ کمرے کو چومنے
سے لپٹنا۔
اَلْصَّہْرِیُّ۔ اَلْصَّہْرُ۔ جہ۔ پانی کا حوض۔
جہ۔ صَہْرَاہُ۔
اَلْصَّہْرِیُّ وَالصَّہْرِیُّ۔ مِیْنِ
اَلْاَصْوَاتِ۔ سخت آواز۔
صَهْصَهْ۔ بالقَوْمِ۔ صہ صہ کہہ کر لوگوں
کو خاموش کرنا۔
صَهْلَ دَفِی، صَہْلًا وَاَصْہْلَةً و
صَہْلًا۔ اَلْفَرْسُ گھوڑے کا ہنسنانا۔
تَصَاہَلَتِ الْخَیْلُ۔ گھوڑوں کا ایک
دوسرے کی طرف ہنسنانا۔
اَلْصَّہْلُ۔ آواز کی تیزی مع گلا پڑنے کے
اَلْصَّہْلُ۔ فَا۔ ہنسنے والا۔ جہ۔
صَوَاهِلُ۔ اَلْصَوَاهِلُ۔ گھاس وغیرہ
میں کمبوں کی جھنجھٹ۔
اَلْصَّہْلُ وَالصَّہْلُ۔ گھوڑے کی آواز۔
اَلْصَّہْلُ۔ مِیْنِ الْخَیْلِ بہت ہنسنانے
والا گھوڑا۔
صَہَا یَصْہِی صَہْوًا وَاَصْہِی یَصْہِی
صَہِی۔ مَنَّاک زخم والا ہونا۔ ناسور

وَالَا ہونا۔ صَہْوَالُوجِل۔ مالدار ہونا۔
صَہِی یَصْہِی صَہِیَا۔ عمر رسیدہ ہونا۔
صَاہِی الدَّابَّةُ۔ پیٹھ پر سوار ہونا۔
اَصْہِی اَصْہَاءُ۔ اَلْفَرْسُ۔ گھوڑے کی
پیٹھ کا درد مند ہونا۔
اَلْصَّہْوَةُ۔ جہ۔ صَہَاءُ وَاَصْہَوَاتُ۔
گھوڑے کی پیٹھ، کوٹان کا پچھلا حصہ۔
جہ۔ صَہِی۔ پہاڑ کی چوٹی کا برج۔
جہ۔ صَہَاءُ۔ وادِیست زمین جس میں پانی
جمع ہو۔ پانی کا چشمہ۔
صَابَ یَصُوْبُ صَوْبًا وَاَصْصَابًا۔
اَلْمَطَرُ۔ بارش برسننا۔ الشَّیْءُ۔
اوپر سے اترنا۔ (ر۔ صَوْبًا) الماء۔
پانی بہانا۔ اَلْسَّمَاءُ اَلْاَرْضِ۔
آسمان کا زمین پر پانی برسانا۔
اَلْمَطَرُ۔ بارش کا پہنچنا۔ (ر۔ صَوْبًا)
صَیْبُوْبَةٌ، السَّہْمُ حِوَالِ السَّیْفِ
تیر کا سیدھا کر نشانہ پر لگنا۔
صَابَ یَصِیْبُ صَیْبًا۔ السَّہْمُ اَلْقَطَاسُ۔
تیر کا نشانہ پر لگنا۔
صَوْبٌ۔ رَاہِیہ۔ تصدیق کرنا۔ فَلَانًا
کسی کی تصدیق کرنا۔ اَلْسَّہْمُ۔ تیر
کو سیدھا کرنا۔ اَلْفَرْسُ۔ گھوڑے
کو دوڑنے کے لیے چھوڑنا۔ اَلْاِنَاءُ
برتن کو جھکانا۔ الماء۔ پانی گزانا۔
رَاہِیہ۔ سر نیچے کرنا۔ اَلْمَکَانُ
وغیرہ۔ کسی جگہ کا داخل ہونا۔
اَصَابَ۔ اَلْسَّہْمُ۔ تیر کا ٹھیک نشانہ
پر لگنا۔ اَلْدَجَلُ۔ درست کرنا۔
اَلشَّیْءِ۔ درست پانا۔ مِیْنِ الشَّیْءِ۔
لینا۔ اَلشَّیْءِ۔ پانا۔ جڑ سے اکھڑنا۔
نیچے لاننا۔ اَصَابَةٌ وَاَصَابَةٌ،
اَلدَّہْرُ الْقَوْمَ بِأَمْوَالِہِمُ اَوْ
لُفُوْسِہِمُ۔ تکلیف دینا، مصیبت
ڈالنا۔ اَصَابَتِ الْمُصِیْبَةُ فَلَانًا۔



کسی پر مصیبت نازل ہونا۔ اَصَابَهُ
بِعَيْنِهِ۔ نظر لگانا۔
تَصَوَّبَ۔ نیچے اترنا۔
اِنْصَابُ اِنْصِيَابًا۔ المَاءُ۔
اِسْتَصَابَ اِسْتَصَابَةً اَوْ اَسْتَصَوَّبَ
اِسْتَصَوَّبًا۔ الرِّايَ اَوْ الْفِعْلَ
کسی رائے یا فعل کو درست پانا۔ ٹھیک
خیال کرنا۔
الصَّابُ۔ ایک کڑوا پودا۔ واحد صَابَةٌ
اس درخت کے عصارہ کو بھی صاب
ہی کہتے ہیں۔
الصَّوْبُ۔ مم۔ جانب، چھت، بخشش،
درستی۔ (ہا الصَّيْبُ) بارش
والا بادل۔
الصَّابَةُ۔ مصیبت، عقل کی کمزوری، کہتے ہیں
”فِي عَقْلِهِ صَابَةٌ“ یعنی اس کی عقل
میں کچھ جنون ہے۔
الصُّوبَةُ۔ غلہ کا ڈھیر۔
الصَّوَابُ۔ درست، ٹھیک، لائق حق۔
الصَّائِبُ۔ فَا۔ ٹھیک کرنے والا۔ ج۔
صِيَابٌ۔ جیسے نام کی جمع نیام۔
الصَّوِيْبُ وَالْمُصِيبُ۔ ٹھیک رائے
والا۔ درست کار۔
الصَّيْبُ۔ ٹھیک کرنے والا۔ صَوَابَةٌ
الْقُرْمُ وَمِثْلَاهُ صَوَابَةٌ
قوم کے چیدہ لوگ۔
الْأُصُوبُ۔ سخت مصیبت والا۔
الْمُصِيبَةُ۔ ج۔ مَصَائِبُ وَمَصَابِ
وَمُصِيبَاتٍ وَالْمَقَابِ وَالْمَصَابِلُ
وَالْمُصُوبَةُ۔ مصیبت۔ بلا۔ صدمہ
ناگہانی آفت۔
المَصَابِ۔ تھوڑا پاگل۔
المُصَوَّبُ۔ چچہ۔ ڈوٹی۔
الصُّوْبُ وَالصُّوْبُجُ۔ بیلن۔
صَاتَ يَصُوتُ دِيَصَاتُ صَوْتًا۔

آواز نکالنا۔ آواز دینا۔ پکارنا۔ صَوْتٌ
تَصْوِيْتًا دِصَاتٌ اِصَاتَةً۔ آواز
دینا۔ اَصَاتٌ يَفْلَانُ کسی کو ایسی بات
سے مشہور کرنا جس کو وہ پسند نہ کرے۔
اَصَاتٌ لَطَسْتُ وَصَوْتُهُ طَشْتُ
بجانا۔
اِنْصَاتُ۔ الرجلُ۔ چپکے سے چلا جانا۔
کبڑا ہونے کے بعد قد کا سیدھا ہونا۔
اِنْصَاتَ بِهِ الزَّمَانُ۔ اس کو زمانہ
نے مشہور کر دیا۔
الصَّوْتُ۔ آواز۔ ہر قسم کا راگ۔ ج۔
اَصْوَاتٌ۔ نغموں کے نزدیک اسماء
اصوات وہ الفاظ ہیں جن سے آواز کی
حکایت کی جائے۔ جیسے طق، پتھر کے
پتھر پر گرنے کی حکایت یا حیوانات سے
کام لینے کے لیے جو آواز نکال جائے۔
جیسے ہلا گھوڑے کو اور حدس خچر کو
ڈانٹنے کے لیے یا تعجب کی حکایت کی
جائے، جیسے دے، یاد دہانی کی حکایت ہو
جیسے اُخ، یا حسرت و افسوس کے
لیے ہو، جیسے آہ۔
الصَّوْتُ وَالصَّاتُ وَالْمُصِيبُ وَ
الصَّيْبَةُ۔ اچھی شہرت۔
الصَّاتُ وَالْمُصِيبُ۔ بلند آواز والا۔
المُصَوَّاتُ۔ بہت آواز دینے والا۔ مَا
بِالدَّارِ مِصَوَّاتٌ گھر میں کوئی نہیں۔
الصَّوْجَانُ۔ مَزْنَتُ صَوْجَانَةٍ تَخْلَعُ
صَوْجَانَةً۔ خشک درخت خرما۔
کہتے ہیں: اَيُّ صَوْجَانٍ هُوَ؟ وہ
کون آدمی ہے۔
صَاحَهُ يَصُوحُهُ صَوْحًا۔ چیرنا۔ چارنا۔
صَوَحَّتْهُ۔ الشَّمْسُ اَوِ الدِّيْمُجُ۔ سورج
یا ہوا کا کسی کو خشک کر دینا۔ صَوَحَّ
الْبَقْلُ۔ خشک ہونا۔ تَصَوَّحَ
پھٹنا، خشک ہونا۔

اِنْصَاحَ اِنْصِيَاخًا۔ پھٹنا۔ اَلْفَجْرُ۔ پھٹنا۔
صبح کا روشن ہونا۔
الصُّوْحُ وَالصُّوْحُ۔ دریا کا کنارہ۔ دامن
کوہ۔ الصَّاحَةُ۔ بنجرین۔
الصُّوَاخُ۔ گھوڑے کا پسینہ، کھجور کا خشک
ٹکڑا۔ الصُّوْحَانُ۔ خشک۔
صَاحَ يَصُوحُ صَوْحًا۔ فِي الارضِ۔ زمین
میں دھننا۔
اَصَاحَ اِصَاحَةً۔ لَهْ دَالِيهْ۔ کان
لگانا۔ بَسْنَا۔ اَصَاحَ عَنْ كَذَا۔
واپس ہونا۔
الصَّاحَةُ۔ مصیبت، بڑی میں چوٹ کا اثر۔
ج۔ صَاحٌ وَصَاحَاتٌ۔
صَارَ يَصُورُ صَوْرًا۔ آواز دینا۔ الشَّيْءُ
جھکانا۔ الشَّيْءُ۔ کانٹا، جدا کرنا۔
صَوْرَ يَصُورُ صَوْرًا۔ جھکانا۔ صفت
رَاصُورُ۔ رَاصُورُ۔ تصویر کھینچنا
شکل بنانا۔
صَوْرِي۔ میرے خیال میں آیا۔ اَصَارَهُ
جھکا دینا۔ توڑنا۔
تَصَوَّرَ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کی شکل کو خیال میں
لانا۔ الرجلُ۔ کسی کا گزرا یا گرنے کی
طرف مائل ہونا۔ تَصَوَّرَ لَهُ الشَّيْءُ۔
چیز کی شکل کا سامنے آ جانا۔
اِنْصَادَ اِنْصِيَاخًا۔ جھکانا۔ ٹوٹنا۔ اَلْقَوْرُ
چھوٹا درخت خرما۔ ج۔ صَيْرَانٌ وَ
اَصَوَارُ۔ گردن کا پہلو۔ دریا کا کنارہ۔
ج۔ صَيْرَانٌ۔
الصُّورُ۔ زینٹھا۔ بگل۔
الصُّورُ۔ مم۔ میلان و کمی۔
الصَّاتَةُ مِنَ الْجَلِيلِ۔ پہاڑ کی چوٹی۔
صَاتَةُ الْمَسْكُ۔ مشک کا ڈبہ۔
الصُّوْرَةُ۔ اسمِ مرۃ۔ جھکاؤ۔ سر کی کھلی۔
الصُّوْرَةُ۔ شکل، طبع، تصویر، خیالی تصویر۔
ج۔ صَوْرٌ وَصَوْرٌ وَصَوْرٌ۔



الصُّوْدَةُ - صفت، نوع، چہرہ۔
 الصُّوَارُ والصُّوَارُ - گایوں کا گلہ، خوشبو۔
 مَقْرُومُ الشَّكِّ، مَشْكُوكُ الشَّكِّ - ج۔
 صِيْرَانٌ - الصُّوَارُ - گایوں کا گلہ۔
 الصِّيْبَانُ - گایوں کا گلہ۔ ج۔ صِيْرَانٌ -
 الصِّيْبَانُ - اچھی صورت والا۔
 رَجُلٌ صَيِّرٌ نَشِيْرٌ - اچھی بیعت و
 شکل کا آدمی۔
 التَّصْيِيْرَةُ - اسٹیج، برت، مجسمہ۔ ج۔
 تَصَاوِيْرٌ -
 المَصْوُورُ - فَا - تصویر بنانے والا۔
 مَصْوُورُ الْكَائِنَاتِ - اللہ تعالیٰ
 الصُّوْمُنُ - لَیْمٌ، بَخِيلٌ، عَوَامٌ "صُومُ"
 مرغی کے اس چوڑے کو کہتے ہیں جو ابھی
 انڈے سے نکلا ہو۔ مگر اس کے لیے فصیح
 لفظ قُوْبٌ ہے۔
 صَاعٌ یَصُوْعُ صَوْعًا - الحَبُّ - صاع
 سے ناپنا۔ القوم - لوگوں کا ایک
 دوسرے پر حملہ کرنا۔ الشَّیْءُ - موڑنا۔
 بکھیرنا۔ القوم - قوم پر اطراف سے
 آنا۔ النُّحْلُ - کمبوں کا ایک دوسرے
 کے پیچھے جانا۔ الرُّجْلُ - نر و دانا۔
 گھبراننا۔
 صَوْعٌ - الشَّیْءُ - چیز کو گول اور تیز نوک
 والی بنانا۔ مَوْضِعًا لِّلْقُطْرِنِ -
 روئی کے دھنے کے لیے جگہ تیار کرنا۔
 الرِّیْحُ النَّبَاتُ - ہوا کا پودوں کو
 ہلانا۔ الطَّائِرُ النَّبَاتُ - پرندہ کا سر
 ہلانا۔ الفَرْسُ - گھوڑے کا سر کشی
 کرنا۔
 تَصَوْعٌ - متفرق ہونا۔ دور ہونا۔ پھیلنا۔
 النَّبَاتُ - پودہ کا ہلنا۔ الشَّعْرُ -
 بالوں کا چرنا۔ سکرنا۔
 انْصَاعٌ انْصِیَاعًا - جلدی واپس ہونا۔
 گذرنا۔

الصَّاعُ وَالصُّوْعُ وَالصُّوْعُ - ایک پریمان
 ہے جو دو سیر چھوٹا چھٹا ایک چار تولہ کے
 مساوی ہوتا ہے۔ ج۔ اَصْوَعٌ و
 اَصْوَعٌ وَاَصْوَعٌ وَاَصْوَعٌ و
 صِیْعَانٌ -
 الصَّاع - پست زمین، کھیلنے کا ڈنڈا۔ سید کا
 وسط، وہ صاف زمین جس میں کھیلنا
 چاہئے۔
 الصَّاعَةُ - پست زمین۔ روئی یا اون دھنے
 کے لیے تیار کی ہوئی جگہ۔
 الصُّوَاعُ وَالصُّوَاعُ - پانی پینے کا پیالہ۔
 ج۔ صِیْعَانٌ -
 صَاعٌ یَصُوْعُ صَوْعًا - المَاءُ - پانی
 کا زمین میں بیٹھ جانا۔ الشَّیْءُ - چیز کو
 درست نمونے پر تیار کرنا۔ الْكَلِمَةُ
 ایک کلمہ سے خاص وزن پر دوسرا کلمہ
 بنانا۔ کہتے ہیں: صَاعُ الْكَلَامِ - اس
 نے کلام گھڑ لیا۔ صَاعٌ اَللّٰهُ فَلَا دَا
 صِیْقَةُ حَسَنَةٍ - فلاں کو اللہ تعالیٰ
 نے اچھے طریقے سے پیدا کیا۔
 صَاعٌ یَصُوْعُ صِیْقَةً وَاَصِیَاعَةً و
 صِیْقُوْعَةً - الشَّیْءُ - پگھلانا۔
 ڈھلانا۔
 انْصَاعٌ انْصِیَاعًا - پگھلنا۔ ڈھلنا۔
 "هُوَ صَوْعٌ اَوْ صَوْعَةٌ اَخِيَّةٌ" وہ
 بھائی کے ساتھ پیدا ہوا ہے یا اس کے
 بعد اور ان کے درمیان کوئی بچہ نہیں۔
 هُمَا صَوْعَانِ - وہ پیدائش وغیرہ
 میں ایک ہی طرح کے ہیں۔
 الصِّیْقَةُ - نوع، اصل۔ ج۔ صِیْقٌ -
 سِقَامٌ صِیْقَةً - ایک ہی بناوٹ
 کے تیر۔
 الصَّائِعُ - فَا - زرگر، سنار۔ ج۔ صَاعَةٌ
 وَاَصِیَاعٌ وَاَصِیَاعٌ - الصِّیَاعَةُ
 زرگری، سنار کا پیشہ۔

الصَّوَاعُ وَالصَّيْبَانُ وَالصَّيْبَانُ - جھوٹا۔
 الصَّيْبَانُ - ڈھالے ہوئے زیورات۔
 صَافٌ یَصُوْفُ صَوْفًا - عَنْ كَذَا -
 مائل ہونا۔ اعراض کرنا۔ السَّهْمُ عَنْ
 الھَدَفِ - تیر کا نشانہ سے ہٹ جانا۔
 (صَوْفًا وَاَصْوَدًا وَاَصْوَدًا -
 یَصُوْفُ صَوْفًا، الْكَبْشُ - بیٹھے
 کا بہت اون والا ہونا۔ صفت (اَصْوَفُ)
 صَوْفَةً - صوفی بنانا۔
 اَصَاقَةً - جھکانا۔ مائل کرنا۔
 تَصَوَّفٌ - صوفی ہونا۔ صوفیوں جیسے
 اخلاق اختیار کرنا۔
 الصُّوْفُ - اون۔ ج۔ اَصَوَاتٌ -
 صَوْفَةٌ - اون کا ٹکڑا۔ اَخَذْتُ
 یَصُوْفُ رَقَبَتَهُ - اس نے اس کو
 زبردستی پکڑ لیا۔ اَعْلَاهُ اِیَّاكَ یَصُوْفُ
 رَقَبَتَهُ - اس نے اس کو مفت یا
 سارا دیا۔
 الصَّوَاتُ - اون کا بیچنے والا۔
 الصُّوْفِيَّةُ - عبادت گذاروں کی جماعت۔
 واحد الصُّوْفِيَّةُ - مسلمانوں کے نزدیک
 صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے اللہ سے
 متعلق رہے۔ جس میں اعلیٰ درجہ کا خلوص
 اور حقائق کے ادراک کی استعداد ہو۔
 الصَّافُ وَالصَّافِي وَالْاَصُوفُ و
 الصَّائِفُ - اون والا۔
 الصُّوْفَانُ - ایک نرم خشک چیز جو کٹری
 کے اندر ہوتی ہے اور جلد آگ پکڑتی ہے۔
 الصُّوْفَانُ - بہت اون والا۔ مَوْنُثٌ -
 صَوْفَانَةٌ -
 الصُّوْفُ وَالصُّوْفَانِي - بہت اون والا۔
 صَاكٌ یَصُوْكُ صَوْكًا - بِهَذَا الزَّعْفَرَانِ
 او اِلْسِنُكَ اَوْ نَحْوَهَا - مشک وغیرہ
 کا چکنا۔
 تَصَوُّكٌ فِی رَجِیْعَةٍ وَاُخْرٰی رَجِیْعَةٍ - وہ اپنے

دُبر۔ جہ۔ مَوَانٌ۔ المَصَانُ والمَصَوَانُ
کان و غیرہ کا غلاف
الصَّوُّ۔ غالی۔ الصَّوَّةُ۔ آواز بازگشت،
ٹیلہ، پہاڑی۔ پتھر جو راہ دکھانے کے لیے
کھڑے کیے جاتے ہیں۔ جہ۔ صَوَّی۔
وجہ۔ اَصَوَاءُ۔ العَوَّی والَاَصَوَاءُ
قبریں۔

صَوَّی یَصَوِّی صَوَّیًا وَصَوَّی یَصَوِّی
صَوَّی وَصَوَّی تَصَوِّیةً وَاصَوَّی
اَصَوَاءُ۔ النخلُ۔ خشک ہو جانا۔
صفت (صَوَّی وَصَوَّی) الصَّرْعُ۔
تھن کا خشک ہو جانا۔ صفت (صَاءُ)
صَوَّی (رَس) صَوَّی۔ الرجلُ۔ قوی ہونا۔
صَابَ یَصِیبُ صَبَّیًا۔ درست ہونا۔
صفت (صَابَ یَصِیبُ)۔ صَابَہ السَّهْمُ
تیر کا نشانہ پر لگنا۔

الصَّیَابُ وَالصَّیَابَةُ وَالصَّیَابُ وَ
الصَّیَابَةُ۔ خالص۔ ہر عمدہ شے۔
الصَّیَابَةُ۔ سردار۔ صَّیَابَةُ القومِ۔
جماعت۔

صَامَ یَصِیْمُ صَائِمًا وَصَائِمًا وَصَائِمًا
صَائِمًا۔ زور سے چلانا، سخت آواز
نکالنا۔ بہ۔ پکارنا۔ آواز دینا۔
علیہ۔ ڈانٹنا۔ العَفْوُ۔ ترخوشی
کا بڑھنا۔ صَائِمٌ یُحِیْمُ۔ وہ ڈر گئے۔
بھاگ گئے۔ فِیْمَہ۔ ہلاک ہونا۔
صَائِمٌ۔ بہت چمکنا۔ الشَّیْءُ۔ توڑنا۔
پھاڑنا۔ صَائِمٌ الرِّیْحُ اَو الشَّمْسُ
البَقْلُ۔ ہوا یا سورج کا سبزی کو
سکھا دینا۔

صَائِمٌ وَتَصَائِمٌ۔ القومِ۔ ایک دوسرے
کو پکارنا۔ صَائِمٌ بہ۔ آواز دینا۔
پکارنا۔
تَصَائِمٌ وَانْصَاعٌ۔ چٹنا۔ پھٹنا۔
انْصَاعُ الفَجْرِ وَالْبَرْقِ۔ ظاہر ہونا۔

جمع کے لیے کیساں ہے۔ شَهْرُ
الصَّوْمِ۔ ماہِ رمضان۔ صَوْمُ
النَّعَامِ۔ شتر مرغ کی بیٹ۔
الصَّوَامُ۔ من الارض۔ خشک بے آب
زمین۔

الصَّوْمَانُ۔ روزہ دار۔ جہ۔ صَائِمٌ۔
الصَّائِمُ۔ روزہ دار۔ یَوْمٌ صَائِمٌ۔
روزہ والا دن۔ مَاءٌ صَائِمٌ۔
ٹھہرا ہوا، رکا ہوا پانی۔ الصَّائِمَةُ
مِنَ السَّكَاكِينِ۔ کسد چھری۔
مِنَ الْخِیْلِ۔ بغیر چارہ کے کھڑا ہونے
والا گھوڑا۔ وَالصَّائِمَةُ مِّنَ
الْبَكَرَاتِ۔ نہ پھرنے والی چسرچی۔
الصَّوَامُ۔ بہت روزہ رکھنے والا۔
صَوْمَعٌ۔ الشَّیْءُ۔ جمع کرنا۔ الْبِنَاءُ
عمارت بلند کرنا۔

الصَّوْمَعَةُ وَالصَّوْمَعُ۔ رابب کی جھونپڑی
یا پہاڑ جس پر رابب رہتا ہو۔ گر جا۔
الصَّوْمَعَةُ۔ عقاب۔ ایک قسم کی
ٹوپی۔ پہاڑ کی چوٹی۔ جہ۔ صَوَامِعُ۔
صَوْمَلٌ۔ الرجلُ۔ بھوک سے کسی کی
کھال کا خشک ہونا۔

صَائِلٌ یَصُومُ صَوْنًا وَصَائِلًا وَ
صَائِلَةً وَاصْطَائِلًا اصْطِیَانًا۔
حفاظت کرنا۔ صفت (صَائِلٌ) (صَوْنٌ)
وَصَوْنٌ)۔
صَانٌ۔ الثَّوْبُ اَو الْعَرَضُ۔ کپڑے یا
سامان کو عیب لگانے والی چیزوں سے
بچانا۔

تَصَوَّنَ وَتَصَاقَنَ۔ مِّنَ الْعِیْبِ۔
خود کو عیب سے بچانا۔

الصَّوَانُ وَالصَّوَانُ وَالصَّوَانُ وَالصَّیَانُ
وَالصَّیَانُ وَالصَّیَانُ۔ کپڑوں، کتابوں
کے محفوظ رکھنے کا برتن۔ جہ۔ اَصْوَنَةٌ
الصَّوَانَةُ۔ چھتاق بنانے کے کام کا پتھر۔

گوبر سے لٹک گیا۔
صَالٌ یَصُولُ صَوْلًا وَصَوْلَةً۔ علیہ۔
کو دوپٹنا۔ مَوْلًا وَصِیالًا وَ
صَالًا وَصَوْلًا وَصِیالًا وَصَالَةً)
علیہ۔ حملہ کر کے مغلوب کرنا۔
صَوَّلَ۔ الْبَیْدُ۔ کھلیان کے اطراف میں
بھاڑ دینا۔ الشَّیْءُ۔ پانی سے نکالنا
پانی میں ڈال کر صاف کرنا۔
صَاوَلَهُ مَصَاوَلَةً وَصِیالًا وَصِیالَةً۔
ایک کا دوسرے پر کودنا۔ ایک دوسرے
پر حملہ آور ہونا۔ تَصَاوَلًا۔ ایک
دوسرے پر حملہ آور ہونا۔ کو دوپٹنا۔

الصَّوْلَةُ۔ سطوت، غلبہ، حملہ۔
صَوْلَةٌ۔ الْجَنَاطَةُ۔ پانی میں صاف کیا
ہوا گیہوں۔

الصَّوَالَةُ۔ کوڑا کرکٹ جو غلہ کے دھونے سے
نکلتا ہے، کھلیان کے اطراف کا کوڑا کرکٹ۔
الصَّوُولُ۔ مِّنَ الرِّجَالِ۔ لوگوں کو مار پیٹ
کرنے والا نظام۔

الْبِصُولُ۔ بھگوانے کا برتن۔ جہ۔ مَصَاوِلُ
۔ الْبِصُولَةُ۔ خرمن صاف کرنے کی
جھاڑو۔

صَامَ یَصُومُ صَوْمًا وَاصْطَامَ۔ روزہ
رکھنا۔ بات کرنے چلنے پھرنے وغیرہ سے
باز رہنا۔ رکنا۔ صفت (صَائِمٌ) جہ
صَائِمُونَ وَصَوَامٌ وَصِیَامٌ وَ
صَوْمٌ وَصِیْمٌ۔ صَامَ الشَّهْرُ۔
مہینہ میں روزے رکھنا۔ منیتہ
موت چمکنا۔ النَّعَامُ۔ شتر مرغ کا
بیٹ کرنا۔ صَامَ التَّهَارُ۔ دوپہر کا
وقت ہونا۔ صَامَتِ الشَّمْسُ۔
سورج کا نصف النہار پر ہونا۔
صَامَتِ الرِّیْحُ۔ ہوا کا ٹھہرنا۔
صَوْمَةٌ۔ روزہ رکھنا۔

الصَّوْمُ۔ مَم۔ روزہ کام سے رکنا، مفرو



لَا تُصَادُّ الْأَرْضُ - زمین کا بعض حصہ روئیدگ سے ڈھک جانا۔
الْمَصِيدَةُ - ایک چیخ۔ عذاب۔ اچانک غارت۔ الصَّيَّاح - بہت چیخنے والا۔
صَادٌ لِّصَيْدٍ وَصَادٌ صَيْدٌ وَتَصَيَّدَ وَاصْطَادَ - الطَّيْرُ - پرندہ کو شکار کرنا۔ صفت رصائد، صَادٌ فَلَانًا - کسی کے لیے شکار کرنا۔
صَادٌ وَاصْطَادَ - المكان - کسی جگہ شکار کرنا۔

صَيْدٌ يَصِيدُ - صَيْدٌ اِطْرَافِي گروں کا ہونا
اَصَادَ - شکار پر اکسانا - اَصَادَ الْبَعِيْرَ - اونٹ کو اذیت دینا، اس کی گروں کی کچی کا علاج کرنا دھند، الْأَصِيدُ - تلبر سے سر کو بلند کرنے والا۔
طِيْرٌ مَعِي گروں والا اونٹ - بادشاہ - شير مؤنث - صَيْدَاءُ - جہ - صَيْدٌ - الصَّادُ - حروف تہجی کا ایک حرف - تانا۔
پتیل - جہ - صَيْدَانٌ - اونٹ کی ایک بیماری جس کی وجہ سے اس کی ناک سے ریش بہتی رہتی ہے اور وہ اپنا سرا و پنجا رکھتا ہے۔

الصَّيْدُ - مہ - شکار۔
الصَّيْدَاءُ - کنکری - پتھری، سخت زمین۔
الصَّيَّادُ - شکاری، شير۔
الصَّيُّودُ - شکاری - جہ - صَيْدٌ وَصَيُّودٌ - الصَّيُّودُ مِنَ النِّسَاءِ - بد خلق عورت۔

الصَّيْدَانُ - سونا - تانا۔ صَيْدَانُ الْحَطِي - چھوٹے کنکر۔

الصَّيْدَانَةُ - بھوت - مِنَ النِّسَاءِ - بد خلق عورت - بہت باتنی۔

الْمَصِيْدَةُ وَالْمَصِيْدَةُ - الْمَصِيْدَةُ وَالْمَصِيْدَةُ - شکار کرنے کا گڑھا - جہ - مَصَايِدُ - الْمَصِيْدُ - پکڑا ہوا

شکار۔

الصَّيْدَانَةُ - دوا فروشی۔
الصَّيْدَانِيُّ وَالصَّيْدَانِي - دوا فروش۔
جہ - صَيَادِلَةٌ - (کلمہ و خیل ہے) اس کے لیے لفظ آجڑائی - بھی آتا ہے۔

الصَّيْدَانُ - مضبوط عمارت، چاندی کی اینٹ تنگ چادر - بجو - لومڑی - بادشاہ - عطر فروش - زمین میں چھپنے والا ایک جانور۔

صَارَ لِيَصِيْرُ صَيْرًا وَصَيْرٌ وَرَدَةٌ وَهَمِيْرًا واپس ہونا - ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا - منتقل ہونا۔
إِلَى كَذَا أَوْ إِلَى فُلَانٍ - کسی تک پہنچنا۔

صَارَ لِيَصُوْرُكَ يَصِيْرُكَ صَيْرًا - کاٹنا - الشَّيْءُ صَيْرًا - روک دینا۔
صَيْرَكَ وَاصَارَكَ إِصَارَةً - ایک حالت یا شکل سے دوسری حالت یا شکل میں بدل دینا۔ تَصَيْرَكَ - مشابہ ہونا۔
الصَّيْرُ - مہ - کام کا انجام و نتیجہ۔

الصَّيْرُ - چیز کا طرف یا کنارہ۔ جب کوئی شخص کام ختم کرنے کے قریب ہوتا ہے تو کہتے ہیں: فَلَانٌ عَلَى صَيْرٍ الْأَمْرِ - دروازہ کی دراڑ - چھوٹی ٹمکن مچھلیاں - یہودیوں کا پادری - کام کا انجام۔

الصَّيْرُ - گایوں کا گلہ - چنگ کی آواز۔
الصَّيْرَةُ وَالصَّيْرَةُ - گائے یا بکریوں کا بارہ۔ جہ - صَيْرٌ وَصَيْرٌ - الصَّيْرَةُ - خشک گھاس

الصَّيْرُ - جماعت - قبر - الصَّيُّوْمُ - عقل ورائے - ر - وَالصَّيُّوْرَةُ - کام کا انجام و نتیجہ۔

الصَّيْرُ - مہ - کام کا انجام و نتیجہ پانی کا

نتی - جہ - مَصَايِدُ -

الصَّيْصَةُ وَالصَّيْصِيَّةُ - جولاہے کا کوچ جس سے وہ تانا بانا درست کرتا ہے۔
مرغ کا خار - ہرن اور گائے کا سینگ۔
کھجور توڑنے کا دستہ - قلعہ - جہ - صَيَّاصِي -

صَاعٌ يَصِيْعُ صَيْعًا وَصَاعٌ - الْغَنَمُ - بکریوں کو متفرق کرنا - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کے خلاف اکسانا۔
تَصَيْعٌ - الْمَاءُ - پانی کا اضطراب کرنا۔
جوش مارنا۔

إِنْصَاعٌ - الدُّجُلُ - تیزی سے واپس لوٹنا - الطَّيْرُ - پرندہ کا فضا میں چڑھنا۔

صَافٌ يَصِيْفُ صَيْفًا وَصَيْفٌ وَتَصَيَّفٌ وَاصْطِفَاً - بِالْمَكَانِ - کسی جگہ موسم گرما میں اقامت کرنا۔

صَافٌ وَصَيْفٌ وَتَصَيَّفٌ وَاصْطِفَاً - الْمَكَانِ - کسی جگہ موسم گرما گزارنا۔

کہتے ہیں: "هَذَا أَطْعَامٌ يُصَيِّفُنِي" - یعنی یہ کھانا مجھے موسم گرما کے لیے کافی ہے۔
صَافٌ رَضٍ صَيْفًا وَصَيْفُوفَةٌ -

السَّهْمُ عَنِ الْهَدَفِ - تیر کا نشانہ پر لگنا - عَنِّي وَجْهُهُ - مائل ہونا۔

صَيْفٌ وَصَيْفٌ - الْمَكَانُ أَوِ الدُّجُلُ - کسی جگہ یا آدمی پر موسم گرما کی بارش پڑنا۔

صَفَتٌ مَفْعُولٌ مَصِيْفٌ وَمَصِيُوْفٌ وَمَصِيْفٌ

صَالِفَةٌ مَصَالِفَةٌ وَصِيَاً - موسم گرما کے لیے مواصلہ کرنا۔

أَصَافٌ إِصَافَةً - بڑھاپے میں شادی کرنا۔
یا بڑھاپے میں اولاد ہونا - اَبْقَوْمٌ - موسم گرما میں داخل ہونا - اَللّٰهُ عِنْدَهُ



<p>الصَّيْتُ - چڑیا۔ جہ۔ صَيْقَلٌ - پسینہ۔ بدبو آواز۔ والصَّيْقَلَةُ - ہوا میں چکر لگانے والا غبار۔ جہ۔ صَيْقٌ - صَالِقٌ بَصِيكٌ صَيْكًا - بلاء الطَّيْبِ أَوْ الدَّم - خوشبو یا خون کا چھٹنا۔ صَيْلٌ - لکڑی کا کڑا۔ مقدّر کیا جانا۔ الصَّيْمُ - بہت سخت۔ الصَّيْنُ - ملک چین۔ الصَّوَانِيُّ - چینی برتن مفرد (صَيْنِيَّةٌ) الصَّيْنِيَّةُ - کسی چیز کے پیش کرنے کے لیے دھات وغیرہ کا طبق۔</p>	<p>الصَّائِفُ کا مؤنث۔ موسم گرما کا وقت گرمی کے موسم کی جنگ۔ صَائِفَةٌ الْقَوْمِ - موسم گرما کی خوراک۔ جہ صَوَائِفُ - الصَّيْفُ وَالْمُتَّصِفُ وَالْمُصْطَافُ موسم گرما گذارنے کی جگہ۔ الصَّيْفُ ندی کا موڑ۔ اَرْضٌ مَصْيَافٌ - وہ زمین جس پر موسم گرما کی بہت بارش پڑے اور اس کی بہزی دیر سے نکلے۔ جہ۔ مَصَائِفُ -</p>	<p>الشَّوْ - اللہ کا کسی سے شکر کو در کرنا۔ أَصَافَتِ الدَّابَّةُ - جانور کا گرمی کے موسم میں بچے دینا۔ الصَّيْفُ - جہ۔ أَصْيَافٌ - موسم گرما۔ الصَّيْفَةُ - موسم گرما۔ یہ صیف سے اخص ہے۔ جہ۔ صَيْفٌ - الصَّيْفُ وَالصَّيْفَةُ - موسم گرما کی بارش۔ الصَّيْفُ وَالصَّيْفِيُّ - موسم گرما میں اگنے والی گھاس۔ الصَّائِفُ وَالصَّافُ - گرم۔ الصَّائِفَةُ</p>
--	---	--

ض

<p>کمزور آدمی۔ ریت کا سفید اور چوڑا قطعہ اول والا۔ بھیڑ۔ دنبہ۔ جہ۔ ضَانٌ و ضَانٌ وَضَيْبٌ وَضَيْبٌ - الضَّائِنَةُ - مؤنث الضَّائِنُ - جہ۔ ضَوَائِنُ - الضَّيْبُ - دودھ بونے کی بڑی مشک۔ ضَائِي يَضَائِي - ضَائِيَا - الرجل پتلے جسم والا ہونا۔ ضَبَّ (رض) ضَبًّا - چپ ہونا۔ الضَّاقَةُ - اونٹنی کا دودھ مٹھی سے دھونا۔ عَلَيَّ الشَّيْءِ - حاوی ہونا۔ الشَّيْءُ - زمین سے چھٹنا۔ عَلَيَّهِ مَضْبُوطٌ سے پکڑنا۔ ر۔ ضَبًّا وَضَبِيًّا - الرِّيقُ وَالْذَّم - مٹھک یا خون کا ہونا۔ ضَبَّتْ (رض) ضَبًّا وَضَبِيًّا - الضَّقَةُ - ہونٹ میں خون بہنے کی بیماری پیدا ہونا۔ ضَبَّتْ يَضْبُتْ وَضَبَّتْ يَضْبُتْ - ضَبَابَةٌ - المکان۔ کسی جگہ میں زیادہ گدھ ہونا۔ مَفْتٌ (ضَبَّتْ) مؤنث ضَبْبَةٌ - ضَبَّتْ - عَلَيَّ الشَّيْءِ - مضبوطی سے پکڑنا۔</p>	<p>جسم اور شانے ہلانے والا۔ ضَبَّتْ - زکام لگنا۔ ضَوَّلَ دَنَ، ضَالَةً وَضُولَةً - دبلا ہونا۔ حقیر ہونا۔ ضَاعَلَ - شَخْصَةً - خود کو حقیر کرنا۔ تَضَاعَلَ - حقیر ہونا۔ کمزور ہونا۔ چھوٹا ہونا۔ الشَّيْءُ - سکر لانا۔ اضْطَّالَ - چھوٹا ہونا۔ کمزور ہونا (مُضْطَّيْلٌ) الضَّيْبُ - چھوٹا۔ پتلا۔ حقیر۔ کمزور، لاغر۔ جہ۔ ضَوْلًا وَضِيَالًا و ضَيَّيْلُونَ - الضُّوْلَةُ - کمزور و لاغر۔ الضَّيْلَةُ - مؤنث۔ الضَّيْلُ - پتلا سانپ۔ حلق کا کوا۔ ضَانَّ (رض) ضَانًّا - الضَّائِنُ - دنیوں کو کوہکریوں سے ہما کرنا۔ أَضَانَّ إِضَانًا - بہت بھیڑوں یا دنیوں والا ہونا۔ الضَّائِنُ - بھیڑ۔ دنبہ۔ الضَّائِنُ - فا۔ کمزور۔ رجل ضَائِنٌ</p>	<p>الضَّيْبُ - ایک سمندری جانور، موتی۔ ضَادَّةٌ دَنَ، ضَادًّا - خصوصیت میں غالب آنا۔ ضَيْدٌ ضَوَادًّا - زکام کی شکایت کرنا۔ أَضَاءَ دَنَ إِضَاءًا - زکام میں مبتلا کرنا۔ الضُّوْدُ وَالضُّوْدَةُ وَالضُّوْدَةُ - زکام۔ الضُّوْدُ - زکام زدہ۔ ضَاَزَّ دَنَ، ضَاَزًّا وَضَاَزًّا - ظلم و زیادتی کرنا۔ ضَاَزَّ دَنَ حَقْلَهُ - حق کم کرنا۔ قِسْمَةُ ضَوَزِي وَضَاَزِي و ضَنَزِي - ناقص تقسیم۔ الضَّيَّازُ - کاموں میں کود پڑنے والا۔ الضُّوْرَةُ - حقیر آدمی۔ ضَاَضًا ضَاَضًا وَضُوَضًا ضُوَضًا - القَوْمُ فِي الضُّوْبِ - لڑائی میں شور کرنا۔ الضَّضَاَضُ وَالضُّوَضُ وَضُوَضِي لڑائی کا شور۔ الضُّوْضُوْءُ وَالضُّضُفِيُّ - جیڑ، معدن، کان۔ الضُّوْضُوْءُ - ایک قسم کا پرندہ جس کے پروں پر انگارنگ کے نقطے ہوتے ہیں۔ ضَرَّطَ دَسَ ضَاَطًا - الرجل - چلنے میں</p>
---	--	---



سخت قبضہ کرنا۔

ضَبَّتْ - عَلَى الضَّبِّ - گوہ کو بھڑکانا۔
ضَبَّتِ الْبَابَ - دروازہ میں بلی لگانا۔
أَضَبَتْ - خاموش ہونا۔ چلانا۔ بات کرنا
دند، الماء أو الريق - پانی یا تھوک
کا ہونا۔ اليوم - دن کا کھر والا ہونا۔
- المكان - کسی جگہ کا بہت گوہ والی
ہونا۔

أَضَبَتْ الارض - زمین کا زیادہ سبزی
والی ہونا۔ الشجر - بالوں کا زیادہ
ہونا۔ القوم - کام کے لیے اکٹھا کئے
ہونا۔ القوم فِي بُعِيَتِهِمْ - اپنے
مقصد طلبی میں متفرق ہونا۔ أَضَبُوا
لِفُلَانٍ - کسی کے طلب کے لیے بھر
جانا۔ الماء والدم - ہسٹا -
عَلَى الْأَمْرِ - کام پر حاوی ہونا۔
عَلَى الشَّيْءِ - چھپانا۔ عَلَى الْمَطْلُوبِ
کامیابی کے قریب ہونا۔ أَضَبَتْ عَلَى
مَا فِي نَفْسِهِ - اس نے اپنا بھید
چھپایا۔ عَلَى غِلٍّ فِي قَلْبِهِ - کینہ دل
میں چھپانا۔

تَضَبَّتْ - الصَّبِيءُ بچہ کا موٹا ہونے لگنا۔
الضَّبُّ - مہم۔ گوہ۔ سوسمار۔ جہ۔
أَضَبْتُ وَهْبَانٌ وَضَبَابٌ وَ
مَضَبَةٌ - عرب کہتے ہیں "لَا أَفْعَلُهُ"
حتیٰ یُرَدِّ الضَّبُّ - یعنی میں اس کام
کو نہیں کروں گا یہاں تک کہ گوہ پانی
پر آئے، ان کا تخیل تھا کہ گوہ پانی پر
کبھی نہیں آتی۔ بَعْلَةُ الضَّبِّ -
ایک قسم کا خوشبودار پودہ۔

الضَّبُّ - اونٹ کے سینہ یا قدم کا ورم
اونٹ کے اگلے پاؤں کی بیماری جو ٹ
کی بیماری جس سے خون بہتا ہے۔
الضَّبُّ وَالضَّبُّ - پوشیدہ کینہ۔
جہ۔ ضَبَابٌ۔

الضَّبَّةُ - مادہ گوہ۔ شکوہ جو ابھی کھلائے ہو۔
خوب پھوڑ کر دوہنا، لوسے یا کڑی کا
دستہ جو دروازہ میں لگاتے ہیں۔ جہ۔
ضَبَابٌ۔

الضَّبُّ - مِنَ الْجِدَالِ - ضمیمہ کی
بیماری والا اونٹ۔ مؤنث۔ ضَبَاءٌ
جہ۔ ضَبٌّ۔

الضَّبِيْبُ - مہم۔ ضَبِيْبُ السَّيْفِ -
تلوار کی دھار۔

الضَّبَابَةُ - کھر۔ جہ۔ ضَبَابٌ۔
الضَّبِيْبَةُ - گلی کھجور سے تیار کردہ، بچوں
کے لیے ایک کھانا۔
المضَبَابُ - بخیل۔

ضَبَّارٌ - ضَبَّاءٌ وَضَبُوْءٌ - الرجل -
زمین یا درخت سے چمٹ جانا۔ صفت
ضَبِيٌّ - الصَّائِدُ شکاری کا شکار سے
چھپنا اور اس کے لیے داؤں کرنا۔

ضَبَّارٌ - بِالْأَرْضِ - زمین سے چھٹانا۔
الْمِيْدَةُ - پناہ لینا۔ مِنْهُ - شرمنا۔
- عَلَى الْقَوْمِ - اچانک آپہنچنا۔
أَضَبَا الشَّيْءَ - چھپانا۔ عَلَيْهِ - کسی
چیز پر خاموش ہونا۔ چھپانا۔ مَا
فِي يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ - ہاتھ کی چیز کو
پکڑے رہنا۔

أَضَطَبَا أَضْطَبَاءً - مِنْهُ - چھپنا۔
الْمَضْبَاءُ - چھپنے کی جگہ۔ جہ۔ مَضَابِيٌّ۔
ضَبَّتْ رَمْنٌ - ضَبْنًا وَاضْطَبَّتْ -

بِالشَّيْءِ وَعَلَيْهِ - سختی سے قبضہ کرنا۔
زور سے قابو کرنا۔ ضَبَّتْ بِهِ -
سختی سے پکڑنا۔ ضَبَّتْ بِهِ - مارا جانا۔
الضَّبَّةُ - قبضہ۔ سخت گرفت۔ جہ۔
ضَبَاتٌ وَأَضْبَاتٌ۔

الضَّبَاتُ - شیر کے پنجے۔ الضَّبَاتُ -
والضَّبِيْتُ وَالضَّبُوْتُ - شیر۔
المضَابُتُ - شیر کے پنجے۔ مفرد

(مضَبَّتٌ)

ضَبَّتْ رَمْنٌ - ضَبْنًا وَضَبَاخًا - الخيل
فِي عَدْوِهَا - دوڑنے میں گھوڑے کا
اپنے جوف سے آواز نکالنا۔ (ضَبَاخًا)
الْأَرْنَبُ وَالشَّعْلَبُ وَالْقَوْسُ -
آواز کرنا۔ (ضَبْنًا) النَّارُ الْعُودُ
آگ کا کڑی کو متغیر کر دینا۔
ضَبَّاحَةٌ - منہ ورنہ مقابلہ کرنا۔ گالی دینا۔
بُرا بھلا کرنا۔

الضَّبَّاحُ - كَوْنُهُ - متغیر ہو کر راکھ جیسے
رنگ کا ہونا۔ الضَّبُّ - راکھ۔
الضَّبَّاءُ - آگ سے جھلسی ہوئی کمان۔

ضَبَّرَنَ ضَبْرًا - الْحَجَارَةُ - پتھر پر
لکھنا۔ الْكُتُبُ - جمع کرنا یا بندل
باندھنا۔ (ضَبْرًا وَضَبْرَانًا)
الغرس أو المقيّد - پاؤں جوڑ کر
کوڑنا۔

ضَبَّرَ - الشَّيْءَ - جمع کرنا۔
الضَّبْرُ - مہم۔ محاصرہ میں قلعہ کے نزدیک پہنچنے
کا آلہ۔ جہ۔ ضَبُوْرٌ - الضَّبْرُ - ثغر۔
ر۔ والضَّبْرُ - جنگلی غروٹ کا درخت
الضَّبْرُ - بغل۔ الضَّبْرُ وَالضَّبَارُ -
کتا میں۔ الضَّبَارَةُ - بناوٹ کی
مضبوطی۔

الضَّبَارَةُ وَالضَّبَارَةُ - جہ۔ ضَبَارِيٌّ۔
وَالضَّبَارَةُ - جہ۔ ضَبَارِيٌّ۔
کتاؤں یا تیروں کا بندل۔ الضَّبَارَةُ -
لوگوں کی جماعت۔ مجمع۔

الضَّبْرُ - بہت کوڑنے والا۔ الضَّبْرُ وَ
الضَّبُوْرُ - سخت شیر۔

الضَّبْرُ - بلوط کے مانند ایک درخت۔ واحد
ضَبَارَةٌ۔

المضَبْرَةُ - بہت کوڑنے والا۔ غیر۔
ضَبْرَةٌ رَمْنٌ - ضَبْرًا - کھکیوں سے تیز دیکھنا۔
ضَبْسَرَنَ - ضَبْسًا - عَلَى الْعِزْمِ - قرصدار



سے سختی سے تقاضا کرنا۔

ضَبَيْسَتْ رَسًا، ضَبَيْسًا - نَفْسُهُ -

خراب ہونا۔ الضَبَيْسُ - بخیل۔

الضَبَيْسُ - شریعہ برائی کی طرف جھکنے والا۔

الضَبَيْسُ - سخت مزاج۔ فریبی۔

الضَبَيْسُ - سخت مزاج۔ بھاری جسم و روح

بزدل، احمق۔

ضَبَطَهُ رَنًا، ضَبَطًا وَضَبًا طَةً -

چھٹنا، غلبہ پانا۔ قوی ہونا۔ پوری پوری

حفاظت کرنا۔ الْعَمَلُ - مضبوط کرنا

- الْكِتَابُ - صحیح کرنا۔ کتاب پر

حرکات لگانا۔ عَلَيْهِ - گرفتار کرنا

ضَبَطَ رَسًا، ضَبَطًا - دونوں ہاتھوں سے

کام کرنا۔ صفت (الضَبَطُ) مؤنث

ضَبَطًا - ج۔ ضَبَطٌ -

ضَبَطَتْ - الارضُ - زمین پر عام بارش

ہونا۔ ہمہ گیر بارش برسنا۔

تَضَبَّطَهُ - رُوكَ، گرفتاری۔ تَضَبَّطَ

الضَّانُ - ونے کا موٹا ہونا۔ تھوڑی

گھاس کھانا۔

الضَّبَطُ - رُوكَ گرفتاری۔

الضَّابِطُ - فَا، قوی، ہوشیار، حاکم، فوج

کا جزل۔ ج۔ ضَبَّاطٌ - والضَّابِطُ

کلی قانون

الضَّابِطُ وَالضَّبَطُ - شِیر -

ضَبَعَ رَنًا، ضَبَعًا وَضَبُوعًا وَضَبَعَاتًا -

الْبَعِيْرُ - اونٹ کا تیز دوڑنا -

الْقَوْمُ لِلصَّالِحِ - صلح کا ارادہ کرنا اور اس

کی طرف مائل ہونا۔

ضَبَعَهُ ضَبْعًا - مارنے کے لیے کسی کی

طرف ہاتھ بڑھانا۔ الرَّجُلُ - ظلم کرنا۔

- عَلَى فُلَانٍ - بدعہ کے لیے ہاتھ

اٹھانا۔

ضَبَعَ الرَّجُلُ - بزدل ہونا۔ ضَبَعَتِ

الْخَيْلُ أَوِ الْإِبِلُ - چال میں پہلوؤں

کو پھیلانا۔

ضَابَعَهُ مُضَابَعَةً - ہر ایک کا دوسرے

کی طرف تلوار کا ہاتھ بڑھانا۔

الرَّجُلُ - مصافحہ کرنا۔ اضْطَبَعَ

بازوئیں کا کر کے چادر کو دائیں بغل کے

نیچے سے لاکر بائیں کا اندھیرہ ڈالنا۔

الشَّيْءُ - بغل میں لینا۔

الضَّبْعُ وَالضَّبْعُ - بحر۔ لفظ مؤنث ہے

مذکورہ مؤنث ہر دو کے لیے مستعمل ہے۔

ج۔ ضَبَاعٌ وَأَضْبَعٌ وَضْبَعٌ وَ

ضُبُوعَةٌ وَضَبَعَاتٌ وَمَضْبَعَةٌ -

ضبع کی تصغیر اُضْبِيعٌ ہے۔ یہ ضاب

قیاس ہے۔

الضَّبْعُ - مِم - بازو بازو کا درمیان۔ بغل۔

الضَّبْعُ وَالضَّبْعُ وَالضَّبْعُ -

پناہ۔ طرف۔ ج۔ اَضْبَاعٌ - الضَّبْعُ

قحط کا سال۔

الضَّبْعُ وَالضَّبَاعُ - دعا کے لیے ہاتھ

اٹھانا۔ الضَّبْعَانُ - زنجیر۔ تشبیہ۔

ضَبْعَانٍ - ضَبْعَانَانِ نہیں ہے۔

ج۔ ضَبَاعِيْنٌ - مؤنث۔ ضَبْعَانَةٌ

ج۔ ضَبَاعِيْنٌ وَضَبْعَانَاتٌ -

الضَّالِيعُ - فَا - مِنَ الْخَيْلِ أَوِ الْإِبِلِ -

تیز رفتار گھوڑے یا اونٹ ج۔ ضَبْعٌ

ضَبْنٌ رَنًا، ضَبْنًا - المکان۔ جگہ کا

تنگ ہونا۔ صفت (ضَبْنِيْنٌ) -

عَنْهُ الْهَدْيَةُ - بدیہ کو روکنا، منع

کرنا۔ اَضْبَنَ وَاضْطَبَنَ - بغل اور

پہلو کے درمیان اٹھانا۔

الضَّبْنُ - مِم - بغل، پناہ۔ الضَّبْنُ

بغل اور پہلو کے درمیان۔ الضَّبْنَةُ

وَالضَّبْنَةُ وَالضَّبْنَةُ - الضَّبْنَةُ

عیال۔ بال بچے - الضَّبْنَةُ -

الضَّبْنَةُ - بیوی۔

ضَبَا يُضْبُو ضُبُوءًا - الیہ - پناہ لینا۔

ضَبَّتَهُ النَّارُ - آگ کا جلانا۔

أَضْبَى - الشَّيْءُ - اونچا کرنا۔ روکنا۔ عَلَيْهِ

جا پکڑنا۔

الضَّالِي رَنًا، رَاكِبًا -

الضَّبُوعَةُ - تباہی کے لیے چڑے کا ہونہ۔

الْمَضْبَاةُ - موبیل کی سکی ہوئی روٹی

ضَبَعَ رَنًا، ضَبَعًا وَضَبَعًا وَضَبَعَاتًا وَ

ضَبَعَاتًا وَضَبَعَاتًا وَضَبَعَاتًا - شور مچانا۔

أَضْبَحَ - اَضْبَحًا - الْقَوْمُ - چھیننا، شور مچانا۔

ضَبَحَ - الرَّجُلُ - جانا اور مائل ہونا۔

الطَّائِرُ وَنَحْوُهُ - زہر دینا۔

ضَاخَةً، ضَخَاخًا وَضَخَاخَةً - جھگڑنا

شور مچانا۔

الضَّبْحَةُ - بَیْضٌ - پکار۔ الضَّبْحَةُ - مِم

باعتی دانت۔ ایک قسم کا مہرہ۔

الضَّبْحَةُ - کھانے کا گوند، ہر زہر بلا پودہ جو پرندوں

یا درندوں کے لیے زہر کا کام دے۔

الضَّبْحُورُ - مِنَ النُّوقِ - دودھ دیتے

وقت چلانے والی اونٹنی۔

الضَّبْحُورُ - بہت چلانے والا۔

ضَبَحَ رَسًا، ضَبَحًا وَضَبَحًا - مِنْهُ

وَبَاءٌ - بے قرار بے چین ہونا۔ تنگ

دل غمگین ہونا۔ صفت - ضَبْحٌ

أَضْبَحَ - سَتَانًا - تنگ کرنا۔ بے قرار کرنا

تنگ دل کرنا۔

الضَّبْحُورُ - مِم - غم و اندوہ کی بے کلی۔

تنگ دل کرنا۔

الضَّبْحُورُ - تنگ جگہ۔ الضَّبْحَةُ -

بے قراری۔ کبیدگی۔

الضَّبْحُورُ وَالضَّبْحَةُ - بہت بے قرار۔

بہت تنگ دل۔

الضَّبْحُورُ - کبیدہ خاطر کرنے والا۔ بے قرار

بے چین کرنے والا۔ ج۔ مَضْبُورٌ

وَمَضْبُورٌ -

ضَبَعَ رَنًا، ضَبَعًا وَضَبُوعًا وَضَبَعَاتًا وَ

اضْجَعُ وَاَضْطَجِعْ۔ پہلو کے بل لیٹنا۔ ضَجَعُ النَّجْمُ۔ غروب کے لیے جھکانا۔
 اَضْجَعَهُ۔ پہلو کے بل لیٹانا۔ الشَّيْءُ۔ پست کرنا۔ الحُرُوفُ۔ حرف کو کسرہ کی طرف اٹالہ کرنا۔ جَوَالِقَةُ۔ بھری ہوئی گون کو خالی کرنا۔
 ضَجَّعَتِ۔ الشَّمْسُ۔ سورج کا ڈوبنے کے لیے مائل ہونا۔ وَتَضَجَّعَ فِي الْأَمْرِ۔ کام میں کوتاہی کرنا۔
 ضَاجَعَهُ۔ سَاةَ لَيْلِنَا۔ صَفَتَ (مَضَاجِعُ) ضَاجَعَهُ الْهَيْئُ۔ غم لگنا۔
 تَضَاجَعَ عَنِ الْأَمْرِ۔ غافل ہونا۔ الضَّجُّعُ۔ مَم۔ صابون، ہر وہ چیز جس سے کپڑا صاف کیا جائے۔
 الضَّجَّعَةُ۔ صابون کا ایک ٹکڑا، رائے کی کمزوری ایک بار کا سونا، آرام و راحت۔
 الضَّجُّعُ۔ مِيلَانُ۔ جھکاؤ۔ الضَّجُّعُ۔ لَيْلِنَا کی ہیئت۔ سستی۔
 الضَّجَّعَةُ۔ رائے کی کمزوری۔ وَالضَّجَّعَةُ وَالضَّجَّعِيُّ وَالضَّجَّعِيَّةُ بہت لیٹنے والا۔ سست۔
 الضَّاجِعُ۔ فَا۔ وادی کا موڑ اور اس کا ڈھلوان احمق۔ مِنَ الدَّوَابِّ۔ نامبارک بانور۔ مِنَ النُّجُومِ۔ ڈوبنے کے لیے مائل ستارہ۔ ج۔ ضَوَاجِعُ۔ رَجُلٌ ضَاجِعٌ۔ بہت لیٹنے والا۔ کابل۔
 الضَّاجِعَةُ۔ مَوْنُ ضَاجِعٍ۔ دریا کا دھانہ ٹیلہ۔ ج۔ ضَوَاجِعُ ر۔ وَالضَّجَّعَاءُ زیادہ بکریاں۔
 الضَّجُّوعُ وَالْمَضْجُوعُ۔ کمزور رائے والا۔ الضَّجُّوعُ۔ بھاری مشک جو اٹھ والے کو جھکا دے۔ بڑا ڈول۔ پانی کی زیادتی سے آہستہ رفتار بادل۔

الضَّجَّعُ سَاةَ لَيْلِنَا۔ مَوْنُ۔ ضَجَّعَهُ الْمَضْجَعُ۔ ج۔ مَضَاجِعُ الْمَضْطَجِعُ۔ خواب گاہ۔ مَضَاجِعُ الْغَيْثِ۔ بارش کی کثرت کی جگہیں۔
 مَضْجَعُ دَسْ، مَضْجَعًا۔ الْقَهْمُ أَوِ الْعُنُقُ۔ منہ یا گردن کا ٹیڑھا ہونا۔ ٹیڑھی گردن یا ٹیڑھے منہ والا۔ اَضْجَعُهُ مَوْنُ ضَجَّعَاءُ۔
 تَضَاجَعُ۔ الْقَهْمُ۔ منہ کا ٹیڑھا ہونا۔ الْأَمْرُ يَنْهَضُ۔ کسی امر کا متنازع فیہ ہونا۔
 الضَّجُّعُ۔ سورج۔ سورج کی روشنی، ہر چیز جس پر دھوپ پڑ رہی ہو۔ ضَحَضَهُ وَتَضَحَضَهُ۔ السُّرَابُ۔ سراب کا متوک ہونا۔ ضَحَضَهُ الْأَمْرُ۔ کام کا واضح ہونا۔ الضَّحَضَةُ۔ مَقْوُورُ اِيَانِي۔ الضَّحَضَةُ۔ مَقْوُورُ اِيَانِي یا پایاب پانی۔ بہت اونٹ۔ ضَحِكُ دَسْ، ضَحِكًا وَضَحِكًا وَضَحِكًا۔ ضَحِكًا۔ ہنسنا۔ ضَحِكًا مِنْهُ بِلْهِ وَعَلَيْهِ۔ اس نے کشادہ روئی کی اس طرح پر کردانت ظاہر ہو گئے۔
 السَّحَابُ۔ بادل کا چمکنا۔ الطَّرِيقُ راستہ کا ظاہر ہونا۔ ضَحَكَتِ الْأَرْضُ عَنِ النَّبَاتِ۔ زمین کا نباتات اگانا۔ الشَّيْبُ بِلَا سِيَاءٍ۔ سر میں بڑھا پانٹا ہر ہونا۔ طَلْعُ النَّخْلَةِ۔ درخت خرما کا شکوفہ پھوٹنا۔ دَرَضَمَكَا الرَّجُلُ۔ تعجب کرنا۔ ضَاحِكَةٌ۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا۔ ہنسی میں غالب آنا۔
 أَضْحَكُهُ۔ ہنسنا۔ أَضْحَكَ الْخَوْضُ حَوْضٌ كُوْ بَانِي سَے لہریز کرنا۔ تَضَحَّكَ وَتَضَاحَكَ وَاسْتَضَحَكَ ہنسنا۔ تَضَاحَكَ الرَّجُلُ۔

بَتَكَلَفَ هِنْسًا۔ تَضَاحَكَ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کو ہنسنا۔
 الصَّحْكُ۔ مَم۔ سفید دانت، پھول۔ جھاگ، برف۔ راستہ کا وسط۔ تعجب، شہد، کھجور کا شکوفہ۔
 الصَّاحِكُ۔ فَا۔ ہنسنے والا۔ بہت سفید پہاڑی پتھر۔
 الصَّاحِكَةُ۔ مَوْنُ الصَّاحِكِ۔ ہر وہ دانت جو ہنسی میں ظاہر ہو۔ ج۔ ضَوَاحِكُ الضَّحْكَةُ وَالضَّحْكَةُ وَالضَّحَاكُ وَالضَّحُولُ وَالْمَضْحَاكُ۔ بہت ہنسنے والا۔ الضَّحُولُ۔ ج۔ ضَحْكُ وَ الضَّحَاكُ۔ راستہ کا وسط، واضح راستہ۔ الضَّحْكَةُ۔ وہ آدمی جس پر لگ ہنسیں۔ الضَّحْكَةُ۔ وہ جو لوگوں پر ہنسنے والا۔ الضَّحْكَةُ۔ الضَّحُولُ دَسْ، قَحْلًا۔ الْغَدِيرُ۔ تالاب میں پانی کم ہونا۔ الْمَاءُ۔ پانی کا پایاب ہونا۔
 الضَّحُولُ۔ پایاب پانی۔ ج۔ ضَحَالٌ وَ أَضْحَالٌ وَضُحُولٌ۔
 الْمَضْحَلُ۔ وہ جگہ جہاں پانی کم ہو۔ ضَحَايَا يَضْحُو ضَحْوًا وَضُحْوًا وَضُحِيًّا۔
 الرَّجُلُ۔ دھوپ کھانا۔ الشَّيْءُ۔ دھوپ لگنا۔ الطَّرِيقُ۔ ظاہر ہونا۔ ضَحَا ظَلَّةٌ۔ وہ مر گیا۔ ضَحِي يَضْحِي ضَحًا وَضُحَاءً۔ دھوپ لگنا۔ سورج سے تکلیف اٹھانا۔ دھوپ کھانا۔ کھل جانا۔ ضَحِيَّتِ اللَّيْلَةُ۔ وہ رات جس میں بادل نہ ہو۔ ضَحِي تَضَحِيَّةٌ۔ فَلَانَا کسی کو چاشت کے وقت کھانا کھلانا۔ بِالْشَّامَةِ۔ بکری کو چاشت کے وقت ذبح کرنا۔ الْغَنَمُ۔ بوقت چاشت چرانا۔ الرَّجُلُ۔ فدیہ ہو جانا۔ عَنِ الْأَمْرِ

ویر لگانا، آہستگی کرنا۔ بیان کرنا۔
ظاہر کرنا۔

مَآخِی۔ مُضَاحَاةٌ۔ الرَّجُلُ۔ کسی کے پاس بوقتِ چاشت آنا۔

آخِضَىٰ - چاشت کے وقت میں داخل ہونا۔
 آخِضَىٰ يَفْعَلْ كَذَا - وہ ایسا کرنے

لگا۔ چاشت کے وقت وہ ایسا کرتا تھا یا مطلقاً ایسا کرتا تھا۔ شیخؒ

ظاہر کرنا۔ عین الامیر۔ دور ہونا۔
أَصْحَى اللّٰهُ فَلَيْلٌ - اللہ بوجھ کو

تَضَعِي تَضَعِيًّا۔ چاشت کے وقت

کھانا۔ چاشت کے وقت تک سونا۔
دھوپ کھانا۔
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ

گردونواح. صنّوآجی الحوٰض.
 حوٰض کے اطراف۔ شجرۃ ضاحیۃ

الْخَلِيلُ - بے سایہ درخت - یومُ
الْضُّحَّانِ - بے ابر کا دن - ارضُ

مَصْحَفًا - سورج کے سامنے کی زمین
دھوپ والی زمین۔

ضخ (ن) خٹھا۔ الماء۔ پانی کرانا۔ آئینہ
کا آئینہ ہونا۔

صَادِيَاتُ

هَذَا مُضَادٌّ. مخالفت کرنا.

الضَّرَازَةُ - اندھاپن۔ جانی و مالی خسارہ و نقصان۔

الضَّرِيرُ - اندھا۔ دبلا، بیمار، نقصان زدہ۔
جہ۔ اِضْرَاءُ وَاِضْرَاسٌ - مؤنث
ضَرِيرَةٌ - جہ۔ ضَرَائِرُ - الضَّرِيرُ -
غیرت، مخالفت، صبر، وادی کا کنارہ۔
نفس، بقیہ جسم۔ صابر۔

الضَّرْدِيُّ - جس پر انسان کو مجبور کیا جائے
ضروری۔

التَّضَرُّعُ وَاَلتَّضَرُّعُ - بدحالی۔

الْمُضَرَّةُ - نقصان۔ جہ۔ مَضَارٌ -

مَضَارِفٌ وَاَضْرَافٌ - الشَّيْءُ - چھپنا۔

الضَّرَائِلُ - الضَّرَاءُ - الابل - اونٹوں

میں موت کا واقع ہونا۔ الشَّجَرَةُ

درخت کا خشک ہونا۔

ضَرْبٌ رَضٍ - ضَرْبًا - الشَّيْءُ - متحرک ہونا۔

- اَلْعَرَقُ - رگ کا چھڑکنا۔ الجَرَحُ

آوای غریب۔ زخم یا وارث کا درد شدید

ہونا۔ الضَّرْبُ - بچھو کا ڈسنا۔

الْكَئِيلُ - رات کا دراز ہونا۔ الزَّمَانُ

گذرنا۔ الطَّيْرُ - پرندہ کا خوراک کی

تلاش میں نکلنا۔ کا۔ کسی کے تلوار

یا لالچی وغیرہ کی ضرب لگانا۔ اَلْهَرْدُ

مُتَدَلِّلٌ لِّمَا - ضَرْبُ الْجَيْمَةِ - خیمہ

نصب کرنا۔

ضَرْبَتِ الْعُقُوبَتِ - کڑی کا جالاتنا۔

ضَرْبُ الْاَجَلِ - مدت مقرر کرنا۔

الْمَثَلُ - مثال بیان کرنا۔ الدَّارُ

درہم ڈھاننا۔ الخَالَتُ - اگلی

ڈھاننا۔ الصَّلَاةُ - نماز قائم کرنا۔

- الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ - طانا۔ الخَاسِبُ

کذا فی کذا - ضرب دینا۔ الْجَزِيَّةُ

عَلَيْهِمْ - جزیہ لگانا۔ عَلَيْهِمْ

الذِّكَّةُ - ذیل کرنا۔ لَهَا مَتَاهَا

مِنْ مَالِهِ سَائِبَ مَالٍ سے حصہ مقرر کرنا۔

- عَلَى يَدِهِ - روک دینا۔ الْقَاضِي

عَلَى يَدِهِ - قاضی کا کسی کو تصرف سے

باز رکھنا۔

ضَرْبُ - بِنَفْسِهِ الْاَرْضَ - اقامت کرنا۔

سفر کرنا راضم - فی الماء - تیرنا۔

- بَيَّتَهُمْ - فساد کر دینا۔ فَلَانًا

مِنْ فَلَانٍ - روک دینا۔ منع کرنا۔

يَبِيْدُ - اشارہ کرنا۔ عَنْ فُلَانٍ

کذا - روک لینا۔ الدَّهْرُ يَبِيْتُنَا -

جد کر دینا۔ بِالْفِدَا - تیروں کو

گھمانا۔ عَلَى اُذُنِهِ - سننے سے

منع کرنا۔ عَلَى الْمَكْتُوبِ - ہر لگانا۔

- فِي الْبُوقِ - بگل بجانا۔ اَلْبَيْتُ -

مائل ہونا۔ ضَرَبَتْ عَنْهُ صَفْحًا -

منہ پھیر لینا اور اس کو چھوڑ دینا۔

ضَرْبٌ يَذْقِيهِ الْاَرْضَ - بزدلی کرنا

خوف کھانا۔ ضَرْبٌ فِي الْاَرْضِ

ضَرْبًا وَاَضْرَبَانًا - تجارت یا غزوہ

کے لیے سفر کرنا۔

ضَرْبُ رَسٍ - ضَرْبًا - الثَّبَاتُ - پودوں کا

ہوایا ٹھنڈ سے مرجھانا۔

ضَرْبُ رِكٍ - ضَرْبًا - سخت مار والا ہونا۔

ضَرْبَتِ الْاَرْضَ - زمین پر گھر کرنا۔

ضَرْبَةُ - بہت مارنا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ -

طانا۔ الْمُظَلَّةُ بِالْحَبْوِطِ - دھاگوں

سے پھرتی کو مضبوط کرنا۔ النِّجَادُ

الْمُضَرَّبَةُ - پنبہ کا رضائی کو سینا۔

ضَرْبَتُ عَيْنِكَ - آنکھ کا گڑھے میں

بیٹھنا۔ ضَرْبُ بَيْنَهُمَا دَبْرًا - دینا۔

- كُفِيَ الْحَرْبِ - جنگ میں دلیر بنانا

ترغیب دینا۔

ضَارِبُهُ مُضَارِبَةٌ وَضَرْبًا - ایک

دوسرے پر تلوار مارنا۔ ماریں دوسرے سے

بڑھ جانا۔ ایک دوسرے کو مارنا۔ ضَارِبٌ

لَهُ فِي الْمَالِ وَبِالْمَالِ - حصہ پر

تجارت کرنا۔

أَضْرَبَ - فِي الْمَكَانِ - اقامت کرنا۔ سر

چھکانا۔ عَنْهُ - اعراض کرنا۔ الْقَوْمُ

پالنے سے ڈھک جانا۔ الضُّبُرُ -

روٹی کا پکنا۔

تَضَرَّبَ - الشَّيْءُ - متحرک ہونا۔

تَضَارَبَ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کو مارنا۔

اَضْطَرَبَ - متحرک ہونے لگا۔ ایک

دوسرے کو مارنا۔ الامر - کسی امر

کا غل پذیر ہونا۔ الْقَوْمُ - ایک

دوسرے کو مارنا۔ فِي اُمُورِهِ - متروک

و مشکوک ہونا۔ مِنْ كَذَا - بے آرام

ہونا۔ فَلَانًا - حصہ مقرر کرنے کا

مطالبہ کرنا۔

اِسْتَضْرَبَ - الْعَسَلُ - شہد کا سفید ہونا

کاڑھا ہونا۔

الضَّرْبُ - مِم - مثل شکل قسم۔ جہ۔

أَضْرَابٌ - ہلکی بارش، دوسرے مصرعہ

کا آخری جزو۔ جہ۔ ضَرْبٌ وَاَضْرَابٌ

وَاَضْرِبٌ -

دَارُ الضَّرْبِ - ٹکسال۔

الضَّرْبُ وَالْفَكْرُ - سفید گاڑھا شہد۔

الضَّرْبَةُ - اسم مفعول۔ دفعہ واحد آفت، فساد

الضَّرْبَانُ - مِم - ضَرْبَانِ الدَّهْرِ -

حوادث زمانہ۔

الضَّرْبُ وَالضَّرْبُ - مارنے والا۔

الضَّرْبُ - بہت مارنے والا۔

الضَّرِبُ - فَا - مارنے والا۔ بہت زمین جس

میں درخت ہوں۔ وادی نما تاریک

رات۔ جہ۔ ضَوَارِبُ - الطَّيْرُ

الضَّوَارِبُ - خوراک کے متلاشی پرندے۔

الضَّرِيْبُ - جہ۔ ضَرْبًا - مارنے والا۔

جہ۔ ضَرْبِي - پٹا ہوا۔ جہ۔ ضَوَارِبُ

قسم۔ مثل، شکل، حصہ آدمی کی ہیئت

برف۔ پالا۔



الصَّيْرِيَّةُ: طبيعت، عادت، تلوار سے مارا ہوا۔ چوٹ کھایا ہوا بدن کا حصہ۔
 جزیہ۔ مِنَ السَّيْفِ۔ تلوار کی دھار۔
 مِنَ الصُّوفِ دَنُجُودَ۔ اون یا روئی کی پونی۔ جہ۔ ضَرَابُ۔
 الْمَضْرِبُ۔ مار کی جگہ یا وقت، اصل۔
 وَالْمَضْرِبُ، تلوار یا اس کی دھار۔
 گدے والی ہڈی۔ جہ۔ مَضَارِبُ۔
 الْمَضْرِبُ وَالْمَضْرَابُ۔ مارنے کا اوزار۔
 موگری۔ بہت مارنے والا۔ الْمَضْرَابُ۔
 بڑا خیمہ۔ جہ۔ مَضَارِبُ۔
 الْمَضْرِبُ وَالْمَضْرِبَةُ۔ مِنَ الْحَيَاتِ۔
 بے حرکت سانپ۔ مَضْرِبَةُ۔
 السَّيْفِ۔ تلوار کی دھار۔ يَسَاطُ۔
 مَضْرِبُ۔ سلا ہوا پھونکا۔
 الْمَضْرِبَةُ۔ اوڑھنے کی رضائی۔
 ضَرْجٌ رَن، مَرْجًا۔ الشَّيْءُ۔ پھاڑنا۔
 - الثَّوْبُ بِالْدَّمِ۔ کپڑے کو خون سے لپیٹنا۔ الشَّيْءُ إِلَى الْأَرْضِ۔ زمین پر ڈالنا۔
 ضَرْجًا۔ لپیٹنا۔ سرخی سے رنگنا۔ کلام کو آراستہ کرنا۔ گھوڑے کو لوٹ میں دوڑانا۔
 ضَرْجٌ وَاضْرَجَ۔ الْجَيْبُ۔ لٹکانا۔
 تَضَرَّجَ۔ پھٹنا۔ پھول کھلنا، لپیٹنا۔
 الْخَدُّ۔ سرخ ہونا۔ عورت کا آراستہ ہونا۔
 الْاضْرَجُ۔ پھٹنا۔ چرنا۔ راستہ کا چوڑا ہونا۔ مَا بَيْنَ الْقَوْمِ۔ ایک دوسرے سے علم نہ ہونا یا نفرت کرنا۔ اَلضَّرَجَاتِ الْعِقَابِ۔ عقاب کا اپنے شکار پر چھپنا۔
 الصَّيْرِيَّةُ۔ ہلکا سرخ رنگ ہوا۔ تیز دوڑ۔
 الْاضْرِيَّةُ۔ زرد رنگ کی چادر، سرخ ریشم، سرخ رنگ تیز دوڑنے والا گھوڑا۔
 الْمَضْرِبُ۔ پھٹا ہوا مستقل کپڑا۔ جہ۔
 مَضَارِبُ۔ الْمَضَارِبُ۔ مشتت۔

الصَّيْرَجُ۔ چیتا۔ جہ۔ ضَرَا جَعُ۔
 ضَرْجٌ رَن، ضَرْجًا۔ الشَّيْءُ۔ پھاڑنا۔
 ایک طرف کرنا۔ ہٹانا۔ قَبْرُ كَهْوَنًا۔
 ضَرْجَتْ رَن، ضَرْوُجًا وَضَرْجًا۔
 السُّوقِ۔ کساد بازاری ہونا۔ ضَرْجًا وَضَرْجًا، الدَّابَّةُ بِرَجُلَيْهَا۔
 دولتی مارنا۔
 ضَارَحًا۔ ایک دوسرے کو گالی دینا۔ تیر مارنا۔ قریب ہونا اور مقابل ہونا۔
 اَضْرَحًا۔ خراب کرنا۔ دور کرنا۔ کساد بازاری کرنا۔
 اَلضَّرَجُ۔ الشَّيْءُ۔ پھٹنا۔ مَا بَيْنَ الْقَوْمِ۔ قوم کا باہمی تعلق ٹوٹنا۔
 اَضْطَرَجَ۔ الشَّيْءُ۔ ڈالنا۔ پھینکنا۔
 الضَّرَجُ۔ دم۔ چمڑا۔ دوری۔ وحشت۔
 الضَّرَجُ۔ خراب آدمی۔ دور۔
 الضَّرَوُجُ۔ مِنَ الدَّوَابِّ۔ دولتی مارنے والا جانور تیز زور سے پھینکنے والی کمان۔
 الضَّرِيحُ۔ دور۔ قہر۔ جہ۔ ضَرَا حُ۔
 الْمَضْرَجُ وَالْمَضْرَجِي۔ شکار کے باروؤں والا گدھ۔
 الْمَضْرَجِي۔ فیاض سرور۔ سفید چمڑا۔
 ضَرَسَ رَمَن، ضَرَسًا۔ الشَّيْءُ۔ داڑھ سے زور سے کاٹنا۔
 ضَرَسَهُ الدَّهْرُ۔ زمانہ نے اس پر مصیبت ڈالی۔ ضَرَسَ الْبَشَرُ۔
 کنیز کے گرد پتھروں کی دیوار بنانا۔
 الرَّجُلُ۔ کسی کا شام تک خاموش رہنا۔
 ضَرَسَتْ دَس، ضَرَسًا۔ الْإِنْسَانُ۔ دانتوں کا آم جانا۔ ترشی سے کھٹا ہونا۔
 اَضْرَسَ۔ الْحَامِضُ الْإِنْسَانُ۔ ترشی کا دانتوں کو کھٹا کر دینا۔ ۵، رنجیدہ کرنا۔
 ۵ بِالْكَلامِ۔ خاموش کر دینا۔
 ضَارَسَا۔ لڑنا۔ دشمنی کرنا۔ ضَارَسَ قَرِيبُ

الْأُمُودُ۔ تجربہ کرنا۔ پہچاننا۔
 تَضَارَسَ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔ باہم لڑنا۔ عمارت کا ناہموار ہونا۔
 الضَّرْسُ۔ داڑھ، دانت۔ جہ۔ اَضْرَأَسَ وَضَرُوسُ۔ وہ ٹیلہ جس پر چسپڑا ہے دشوار ہو، کنیز کی مینڈھ کا پتھر، ہلکی بارش۔ جہ۔ ضَرُوسُ۔
 الضَّرْسُ۔ مسافر، جنگ ہو، بھوک کے سبب غصہ ناک، تجربہ کار، سخت مزاج۔
 الضَّرُوسُ۔ مِنَ النُّوقِ۔ وہ اونٹنی جو دوہنے والے کو کاٹے۔ حَرْبُ ضَرُوسُ۔ سخت تباہ کن لڑائی۔
 الضَّرِيْسُ۔ مینڈھ والا کنواں۔ پیٹھ کے ٹکے۔
 بھوکا۔ جہ۔ ضَرَأَسَى۔
 الْمُضْرَسُ۔ مفع۔ مصیبت زدہ۔ مِنَ الْوَيْثِي۔ وہ کپڑا جس پر دانت کی طرح نقش و نگار ہوں۔ تَضَارِيْسُ الْأَرْضِ۔ دانتوں کی طرح زمین کی نکلی ہوئی بلندیاں۔
 الضَّرُضْمُ۔ شیر، زورندے۔
 ضَرَطَ رَمَن، ضَرَطًا وَضَرَطًا وَضَرَا طًا وَضَرِيْطًا۔ گوز کرنا۔
 ضَرَطَ دَس، ضَرَطًا۔ ہلکی داڑھی اور باریک ابرو والا ہونا۔ صفت دَا ضَرَطَ ضَرَطًا۔ الْحِمَارُ۔ گدھے کا بہت گوز کرنا۔
 ضَرَطًا وَضَرَطًا۔ الْحِمَارُ۔ گدھے سے ایسا کام لینا کہ اس کا گوز خارج ہو جائے۔ ضَرَطًا وَضَرَطًا۔ بَقْلَاتٍ۔
 کھٹے کے طور پر گوز کی سی آواز منہ سے نکالنا۔
 الضَّرَاطُ وَالضَّرُوطُ وَالضَّرُوطُ۔ گوز کرنے والا۔ بہت گوز مارنے والا۔
 ضَرَعَ رَن، ضَرُوعًا۔ مِنَ الشَّيْءِ۔ قَرِيبُ

ہونا۔ آفتاب کا غروب ہونا۔ یا غروب ہونے کے قریب ہونا۔
 ضَرَعٌ دَن مَضْرَعًا۔ قَرَسًا۔ گھوڑے کو سداہنا۔
 ضَرَعٌ دَن، ضَرَاعَةٌ وَضْرِعٌ (دس) ضَرَعًا وَضْرَعٌ دَن، ضَرَاعَةٌ۔ کمزور ہونا۔
 إِلَيْهِ مَرْتَبَةٌ كَرْنَا، اَلْكَسَارِي كَرْنَا۔ صَفَتْ (ضَارِعٌ وَضْرِعٌ) ج۔ ضَارِعُونَ وَضْرِعُونَ وَضْرَعَةٌ۔
 ضَرَعٌ۔ مِنْ فُلَانٍ۔ چپکے چپکے قریب آنا۔
 ضَرَعَتِ الشَّمْسُ۔ سورج کا ڈوبنا یا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ اَلْقِدْرُ لُثْدِي كَلَيْتُ كَيْ قَرِيبٌ هُنَا۔ ضَرَعٌ الْوَبْتُ۔ شیر کا اچھی طرح نہ پکنا۔
 ضَارَعَهُ۔ مشابہ ہونا۔ سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔
 اَضْرَعَتِ الشَّاةُ الْبَكْرِي كَيْ تَهْنُوكَ مَوْدَارِ هُنَا بَارِ هُنَا۔ صَفَتْ وَضْرَعًا وَضْرُوعًا وَضْرِيْعًا وَضْرِيْعَةً۔
 بچہ پیدا ہونے سے پہلے دودھ اُتر آنا۔ اَضْرَعُ الْوَجَلُ۔ ذلیل کرنا۔
 يَغْلِبُ مَا لَا كَيْ لِي مَالٍ خَرْجُ كَرْنَا۔ اَلْحَقِي فُلَانًا۔ بیمار کا کسی کو کمزور و ضعیف کر دینا۔ اور اسی سے یہ مثل ہے کہ اَلْحَقِي اَضْرَعْنِي لِلنَّوْمِ۔ حاجت کے وقت ذلیل ہونے کے موقع پر بول جاتی ہے۔
 تَضْرَعٌ ذِيلٌ هُنَا۔ چپکے چپکے قریب آنا۔ اِلَى اللّٰهِ۔ خدا تعالیٰ سے عاجزی سے دعا کرنا۔ اَلْظَلُّ سَايَ كَا سَكْرًا۔
 تَضَارَعَا۔ ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ اِسْتَضْرَعَ۔ لَہ۔ اَلْكَسَارِي كَرْنَا۔ ذیل ہونا۔
 اَلضَّرْعُ يَمْنُ۔ ج۔ ضَرُوعٌ۔ اَلضَّرْعُ مِثْلُ رَسِي كِي لُثِي۔ ج۔ ضَرُوعٌ اَلضَّرْعُ مِمَّ يَنْعِيْفُ، بَزُولُ۔ اَلضَّرْعُ

کمزور۔ نحیف۔ ہر چھوٹی چیز۔ اَلضَّرْعَاءُ وَالضَّرِيْعَةُ مِمَّنِ الشَّاةُ وَالْبَقَرُ۔ بڑے حق والی بکری یا گائے۔
 اَلْاَضْرَعُ۔ لاغر، کمزور، چھوٹا۔ اَلْمُضَارِعُ۔ مشابہ۔ وہ فعل جو زمانہ حال و مستقبل دونوں کے معنی دے اور ماضی پر آتین میں سے ایک حرف زائد کرنے سے بنے۔ علم عروض کی ایک بحر کا نام ہے۔ ضَرْعٌ وَتَضْرَعُ عَمَّ شِيرَ کَا سَا کام کرنا۔
 شیر کے مشابہ ہونا۔ اَلضَّرْعُ مِمَّ شِيرَ ج۔ ضَارِعٌ۔ اَلضَّرْعَامُ وَالضَّرْعَامَةُ۔ شیر، بار، قوی۔
 اَلضَّرْفُ۔ دودھ یا گھی وغیرہ کے رکھنے کی مشک، اصل میں یہ ظرف ہے۔ اَلضَّرْفَةُ۔ کثرت۔
 قَمَرٌ دَن، ضَرَاكَةً۔ بے وقوف ہونا۔ اَلضَّرِيْكُ اَلْحَقُّ، اَنْدَهَا، نَحَا، بَدْعَال، فِقِيرُ نَرَكُهُ۔ ج۔ ضَارِيْكٌ وَضَرَاكًا۔
 اَلضَّرَاكُ۔ موٹا آدمی مضبوط توانا آدمی، شیر۔ ضَرَمَ دَس، ضَرَمًا۔ سخت بھوک یا غصہ ناک ہونا۔ ضَرَمَتِ النَّارُ۔ آگ کا بھڑکنا۔ علیہ۔ غصہ سے بھڑکنا۔
 فِي الطَّعَامِ۔ حرص سے کھانا۔ اَضْرَمَ وَضَرَمَ وَاسْتَضْرَمَ۔ النَّارَ آگ جلانا۔ روشن کرنا۔
 اَضْطَرَمْتُ وَتَضَرَمْتُ۔ النَّاسُ۔ آگ کا بھڑکنا۔ تَضَرَمَ الْوَجَلُ عَلَيْهِ غصہ سے بھڑکنا۔ اَضْطَرَمَ الْمَشْيَبُ۔ بڑھاپا نمودار ہونا۔
 اَلضَّرْمُ۔ مِمَّ۔ بھوک کا غصہ، ایندھن۔ "لَفَحْتُ فِي غَيْرِ ضَرْمٍ" جب کوئی بے نتیجہ اور بے فائدہ کام کیا جائے اس وقت یہ مثال بولی جاتی ہے۔
 اَلضَّرْمُ مِمَّ بھوکا، عقاب کا چہرہ۔ اَلضَّرْمَةُ چنگاری۔ آگ۔ ج۔ ضَرْمٌ۔

اَلضَّرَامُ بھڑک، جلن، چھٹی، وسیع میدان۔ اَلضَّرَامَةُ۔ جلتی ہوئی کڑی۔ درخت بطل۔
 اَلضَّرِيْعُ۔ جلا ہوا۔ اَلضَّرِيْعُ۔ ایک قسم کا گوند۔ ضَرًا يَضْرُو ضُرُوًا۔ اَلْعَرَقُ۔ رگ سے خون ایسا بہنا جو بند نہ ہوتا ہو۔
 اَلرَّجُلُ۔ چھینا۔ ضَرِي يَضْرِي ضَرَادَةً وَضَرِي وَضْرِيًا وَضَرَاءَةً۔ پالشی۔ کسی چیز کا بہت شوق رکھنا (ضَرِي وَضْرِيًا وَضَرَاءً وَضَرَاءً اَلْكَلْبُ بِالْقَيْدِ۔ کتے کا شکار پر غور کرنا۔ گوشت و خون سب کھا جانا۔ صَفَتْ (ضَرِي وَضَرِيًا) ج۔ ضَوَارٍ۔
 ضَرِي وَضَرِيًا۔ اَلْكَلْبُ بِالْقَيْدِ کتے کا شکار کا عادی بنانا۔ سداہنا۔ شکار کے لیے اکسانا۔ اَضْرِي الْوَجَلُ جھگ والی بینہ پینا۔
 اِسْتَضْرِي۔ اَلْقَيْدُ۔ شکار کو بے غری میں پکڑنا۔ اَلضَّرَاءُ۔ مِمَّ۔ گنجان درخت، وسیع کھلا میدان۔ پوشیدگی۔
 اَلضَّرِي۔ مِمَّ۔ لُثِي کی تیزی۔ اَلضَرُو شکاری کتا۔ مؤنث۔ ضَرُوَةٌ۔ ج۔ ضَوَاءً وَاضْرٍ۔ ایک قسم کا درخت۔
 اَلضَّرِي۔ ایک قسم کی بینہ۔ اَلضَوَارِي۔ اَلضَارِي كِي مَجْع۔ مِّنَ اَلْحَيَوَانَاتِ۔ وزیدے۔
 ضَرِي يَضْرِي ضَرِيًا۔ اَلْعَرَقُ بِالْدَّمِ۔ رگ سے خون بہنا۔ صَفَتْ (ضَرِي) ضَرَّ دَس، ضَرَّزًا۔ بدخلق ہونا۔ اَضَرَّ۔ علیہ۔ بخل کرنا۔ اَضَرَّ۔ پینا۔
 اَلْاَضَرُّ۔ بدخلق، تنگ باپھوں والا ہونا۔ داڑھوں کے ملنے کی وجہ سے صاف بات نہ کر سکتا۔



ج۔ مَؤَنٌ۔

المُؤَنُّ بِدُخْلٍ غَضَنَک۔

مَؤَنَتُہ دُن مَؤَنَک۔ مَؤَنَتُہ سے چھین لینا۔

تَضَاعَتِ الْقَوْمِ۔ قہقہہ کے لیے جھگڑنا۔

الضَّيُّونُ۔ قابل وثوق محافظ انسان

کے بال بچے، شرکا، پانی بھرتے ہوئے

جھگڑنے والا۔

ضَعُضَعٌ۔ گرا کر زمین کے برابر کر دینا

تَضَعُضَعٌ۔ عاجزی کرنا۔ ذلیل ہونا۔ کمزور

ہونا۔ بیماری یا غم کی وجہ سے نحیف

ہونا۔ مال کا تھوڑا ہونا۔ کہتے ہیں۔

”نَضَعُضَعُ بِه الدَّهْرُ“ یعنی زمانہ

نے اسے ذلیل و عاجز کر دیا۔

الضَّعُضَعُ وَالضَّعُضَاعُ۔ ہر کمزور چیز۔

بے رائے و تدبیر کا آدمی۔

الضَّعُضَعَةُ۔ مص۔ شدت، انکساری۔

ضَعَطَهُ (دُن) ضَعَطًا۔ ذبح کرنا۔

ضَعَفَ (دُن) ضَعْفًا وَضَعُفًا۔ و

ضَعَفَ (دُن) ضَعْفًا۔ د

ضَعَائِيَّةٌ۔ کمزور ہونا۔

ضَعَفَ (دُن) ضَعْفًا۔ القوم۔ زیادہ کرنا۔

الشیء۔ دوچند کرنا۔

ضَعَفَ (دُن) ضَعْفًا۔ کمزور کرنا۔ ضَعَفَ

الْحَدِيثُ ضَعْفَ كِلَافٍ۔ منسوب

کرنا۔ ر۔ وَتَضَعُفُهُ وَاسْتَضَعُفَهُ

کسی کو ضعیف پانا، یا خیال کرنا۔

أَضْعَفَهُ۔ دوچند کرنا۔ کمزور کرنا۔ صفت

مفعولی۔ (مَضْعُوفٌ) نہ مَضْعُفٌ۔

جیسے کہتے ہیں۔ ”أَسْعَدَكَ اللَّهُ“

تَعَالَى فَهُوَ مَسْعُودٌ مَسْعَدٌ۔

ضَاعَفَهُ دوچند کرنا۔ تَضَاعَفَ الشَّيْءُ

دوچند ہونا۔

الضَّعْفُ وَالضَّعْفُ۔ کمزوری۔ ضَعْفٌ

الشیء۔ دوگنا۔ دوچند ج۔

أَضْعَافٌ۔ أَضْعَافُ الْكِتَابِ

کتاب کی سطور کا درمیانی فاصلہ۔

الْأَضْعَافُ مِنَ الْجَسَدِ۔ جسم کے

اعضایا یا ہڈیاں۔

الضَّعْفُ۔ کمزوری، عقل و رائے کی کمزوری۔

الضَّعْفَانُ۔ ج۔ ضَعْفَانِ وَدِرَالِضَعُوفٌ

کمزور۔

الضَّعِيفُ۔ کمزور۔ ج۔ ضِعَافٌ، ضِعَافٌ۔

وَضَعْفَةٌ وَضَعْفِيٌّ۔ مؤنث۔

ضَعِيفَةٌ۔ الضَّعِيفُ مِنَ

الکلام۔ درجہ فصاحت سے گرا ہوا

کلام۔

الضَّاعِفَةُ۔ مِنَ الدُّرُوعِ۔ ایسی زره

جس کے ٹکڑے دہرے دہرے ہوں۔

ارِضٌ مُضْعِفَةٌ۔ وہ زمین جس پر

ہلکی بارش پڑی ہو۔

ضَعِلَ رَسٌ ضَعْلًا۔ ہال یا پ کے

آپس میں قریب النسب ہونے سے بچہ

کا پتلے جسم والا ہونا۔

ضَفَا يَضْفُو ضَفْوًا۔ چھینا، پوشیدہ ہونا۔

أَضَعَّ۔ القوم۔ سرسبز باغ میں ہونا۔

فَرَّاحٌ وَتِيٌّ كِي زَنْدِکِی بَسْرَکَرِنَا۔ أَضَعَّتْ

وَأَصْطَقَتِ۔ الارض۔ زمین کا

سرسبز و شاداب ہونا۔

الضَّيْفِيُّغُ۔ سرسبز، شادابی، تروتازگی۔

الضَّيْفِيَّةُ۔ سرسبز و شاداب باغ۔

آسودہ و خوش حال زندگی، پتلا گوندھا

ہوا آٹا، لوگوں کی مختلف جماعت۔

مختلف آدمیوں کی پارٹی۔

ضَغَبَ (دُن) ضَغْبًا۔ بھیڑیے یا خرگوش

کی طرح آواز کرنا۔

الضَّغِيبُ وَالضَّغَابُ۔ خرگوش اور

بھیڑیے کی آواز۔

الضُّجُومُوسُ۔ لومڑی کا بچہ، کمزور آدمی، ایک

قسم کی گھاس۔ ج۔ ضَغَابِيْسُ۔

ضَغَتْ (دُن) ضَغْتًا۔ الْحَدِيثُ۔

گفتگو کو ملانا، خلط ملط کرنا۔ الثَّوْبُ

کپڑے کو دھونا اور صاف نہ کرنا۔

الشیء۔ جمع کرنا۔

أَضَعْتُ۔ الْحَالِحُ الدُّوْبَا۔ خواب کو

شک سے بیان کرنا۔ ضَعَّتْ۔

النبات۔ سبزی کا مٹھا بنانا۔

أَضْطَفْتُ۔ الْحَطَبُ۔ کڑی کو اکٹھا

کرنا۔ جمع کرنا۔

الضُّغْتُ۔ سبز و خشک گھاس کا مٹھا۔

مِنَ الْخَبْرِ وَالْأَمْرِ۔ مخلوط خبر و

امر جس کی کوئی حقیقت و بنیاد نہ ہو۔

ج۔ أَضْعَافٌ۔

أَضْعَافٌ۔ أَحْلَامٌ۔ ڈراؤنے خواب، مخلوط

خوابیں جن کی حقیقت بیان نہ ہو

سکے۔ کلام ضَعْتُ۔ نامبارک

کلام۔

التَّضْعِيفُ۔ مص۔ بارش سے تر زمین یا

نباتات۔

ضَعُضَعٌ۔ التَّشْيِخُ الْقَدَمَةُ۔ بوڑھے کا

بے دانتوں کے لقمہ چبانا۔ مسوڑھوں سے

لقمہ چبانا۔ الرجلُ۔ غیر واضح کلام

کرنا۔ الکلام۔ زیادہ کرنا۔

ضَعَطَهُ (دُن) ضَعَطًا وَأَضْعَطَهُ بِخَوْطِنَا

بھینچنا، بھیڑ کرنا۔ تنگی کرنا۔

ضَاعَطَهُ ضِعَاطًا وَمَضَاعَطَةً۔ ایک

دوسرے کو بھینچنا، تنگ کرنا۔

تَضَاعَطُوا۔ ایک دوسرے کو بھینچنا، تنگ

کرنا۔ انضَغَطَ۔ مغلوب ہونا۔

الضُّغْطَةُ۔ تنگی، بے آرامی، مجبوری، سختی۔

الضُّغْطَةُ۔ قہر، تنگی، اضطراب۔ ایک دفعہ کا

پھوڑنا، ایک دفعہ کا بھینچنا۔

الضَّاعْطَانَا۔ محافظ، نگہبان۔

الضَّاعُوطُ۔ کا بوس کی بیماری۔

الضَّغِيبُ۔ کمزور رائے والا۔ ج۔ ضَغَطِيٌّ۔

مُؤَنٌ۔ ضَغِيبَةٌ۔



الْبَصْفَةُ - پست زمین۔ جہ۔ مَصَاغُطٌ۔
 صَفْعَدَنٌ - صَفْعَا - الشَّيْءُ وَبِهِ۔
 وائتوں سے کاٹنا۔
 الصُّغَامَةُ - وائتوں سے کاٹ کر پھینکی
 ہوئی چیز۔
 الصُّيْعَمُ - جہ۔ صَيَاغَمٌ - وَالْقَيْغَبِيُّ
 شِيرٌ - الصُّيْعَمُ - کٹنے والا۔
 مَفِغَنٌ - رَسٌ - مَفِغَنًا - عَلِيَّةٌ - كَيْنٌ رَكْنًا۔
 إِلَيْهِ - مائل ہونا۔ جھکنا۔ اِضْطَغَنَ
 بَنَلٌ كَيْ نِيحٍ لِيْنَا - اِضْطَغَنَ وَ
 تَضَاعَنَ - الْقَوْمُ - اِيك دوسرے
 سے کینہ رکھنا۔
 الضُّغْنُ - كَيْنٌ شَوْقٌ كَجِي، جھکاؤ، بغل، جانب
 گود، پہاڑ کا پہلو۔
 الضَّاعِنُ وَالضُّعْنُ - كَيْنٌ وَر - قَرَسٌ
 ضَاعِنٌ مِثْلًا كَقَوَارِجٍ بَارِئَةٍ نَظِيرَةٍ
 عَوْدٌ ضَعِنٌ - طِيرٌ هِيَ كَطَرِي -
 الضُّغْنَةُ - كَيْنٌ - جہ۔ ضَعَائِنٌ -
 ضَعَا يُضْعُو ضَعْوًا - الْمَقَامِيرُ - جَوَارِي
 كَاغِيَا تَكْرًا - إِلَيْهِ - عَاجِزِي كَرْنَا -
 ضَعُوًا وَضَعَاءً - السِّنُورُ - بِلِي كَا
 مِياؤں مِياؤں کرنا۔
 تَضَاعَى بِهَوَاكَ بَارِئَةٍ سَائِلَةً اَوْرِ جَلَانَا -
 الضُّغَا - ذَلِيلٌ اَدْمِي كِي اَوَاذ -
 صَفْ رَن - مَفَا وَصَفَا - الْقَوْمُ عَلَى
 الْمَاءِ اَوِ الطَّلَاعِ - پانی یا کھانے پر
 بھڑکنا۔ صَفَا الشَّيْءُ -
 تَضَافَ - الْقَوْمُ - بھڑکنا۔ کمر مال والا ہونا۔
 صَفٌ - الْحَالُ تَنَكُّ حَالٌ - بَدْعَال -
 الضُّفَّةُ - جَاعَتِ (وَالضُّفَّةُ) نَزَكَ
 كَنَارَهُ - مِّنَ الْبَحْرِ - سَمْنَدَرَا
 سَاحِلٌ - جہ۔ ضَفَافٌ -
 الصُّفُفٌ - مِمَّا لَكَ قَلَتِ عِيَالٌ كَثُرَتْ
 حَاجَتُكَ كَزَوْرِي - جلدی -
 الصُّفَافَةُ - بے عقل - عَيْنٌ صُفُوفٌ

بہت پانی والا چشمہ - مَاءٌ مَّضْفُوفٌ
 وہ پانی جس پر بھڑکتے گئے۔
 صَقْدَا (رَض) - صَقْدَا - تھپڑ مارنا۔
 صَقْدَعٌ - الْمَاءُ - پانی کا میٹھکوں والا ہونا۔
 - الرَّجُلُ - سکرنا۔ گونز کرنا۔
 الصَّفِيدُ - مِیڈل - جہ۔ صَقَادِعُ
 وَصَقَادِي - وَاحِدٌ (صَقْدَا عَةً)
 صَقَر رَضٍ - صَقَرًا وَصَقَرًا - الْحَبْلُ
 رسی ٹپنا۔ الشَّعْرُ - بال گوندنا۔
 صَقَرُ الْيَدِنَا - عَمَارَتٌ كَوْبَغِيرٍ جَوْنِ
 اور گارے کے پتھروں سے بنانا۔
 الدَّجَلُ - وَوَرْنٌ مِّنْ كَوْنَا - الدَّابَّةُ
 جانور کے لگام لگانا۔
 صَافَرٌ - عَلَى الْأَمْرِ - مدد کرنا۔
 الضُّفَرُ - گندھا ہوا ہونا۔ بٹا ہوا ہونا۔
 الضُّفَرُ - مِمَّا كَبَاوَهُ كَاتَنُكَ - گندھے
 ہوئے بالوں کی ایک لٹ یا زلف۔
 رِبَتْ كَا اِيك بڑا تو وہ - جہ۔ ضُفُورٌ
 وَأَضْدَارٌ -
 الضُّفَارُ - اَوْنُكُ كَالْبَالَانِ كَاتَنُكَ - جہ۔
 ضُفَرٌ -
 الضُّفِيرَةُ - رِبَتْ كَا وَهِيَرٌ - الضُّفِيرُ
 گندھے بالوں کی رسی سمندر کا کنارہ۔
 كَبَاوَهُ كَاتَنُكَ -
 الضُّفِيرَةُ - زَلْفٌ - جہ۔ ضَفَائِرُ -
 كَنَانَةٌ ضَفِيرَةٌ - مِمَّا هُوَ اَتْرَكَش -
 ضَفَزَرَن - ضَفَزَا - كَوْنَا - پھانڈنا۔
 فَلَانًا - دَفْعٌ كَرْنَا - مِمَّا يَافَاوُلُ سَ مَارْنَا -
 - الْفَرَسُ - گھوڑے کے لگام لگانا۔
 - الْبَعِيرُ - اَوْنُكُ كَمَنْزِيں زَبَرْدَسْتِ
 لَقْمٌ اَوْنَا -
 اِضْطَفَزَ - اَبَاوَهُوَ كَرَا بَسْتِ كَالْقَمْرِ اَوْنَا -
 الْقَطَارُ - چغل خورد۔
 الضُّفِيرَةُ - بڑا لقمہ - جہ۔ ضَفَائِرُ -
 ضَفْضَفَةٌ - الْقَوْمُ - لوگوں کی جماعت،

پارٹی۔
 صَفْطَةُ (رَن) - صَفْطَا - بِالْحَبْلِ - رسی
 سے مضبوط باندھنا۔ الرَّجُلُ -
 اپنی حاجت پوری کرنا۔ يَسْلُجِيهِ -
 پانچنا کرنا۔
 صَفْطَرَك - صَفْطَا طَةً - ڈھیلے اور بڑے
 پیٹ والا ہونا۔ جابل اور کمزور رائے
 والا ہونا۔
 تَضَافَطَ - اللَّحْمُ - گوشت کا گٹھا ہوا ہونا۔
 الصُّفْطَةُ - جِهَاتٌ - رائے کی کمزوری۔
 الضَّافِطُ - فَا - قَرِيبٌ كَا مَسَافِر -
 الضَّافِطَةُ - اَدَاوَاوَنُكَ - رَزِيلٌ لَوَكٌ - شَتْرَبَانِ
 الضُّفَاظُ وَالضُّفِطُ وَالضُّفِيطُ - مَوْتَا -
 ڈھیلہ۔ بڑے پیٹ والا۔ بے وقوف
 بوجھل، ساربان۔ الضُّفَاظُ - رَزِيلٌ لَوَكٌ -
 ضَفْنٌ (رَض) - مَفْنَا - إِلَيْهِ كَبَسِي كَ پَاسِ
 جا کر بیٹھنا۔ بِحَاجَتِيهِ - حاجت
 پوری کرنا۔ بِجَلِيلِهِ - لَات مَارْنَا -
 مَعَ الضُّعِيفِ - سَائِلَةً اَنَا - بِدَلِ الْأَرْضِ
 زَمِينَ پَر گَرْنَا - فَلَانًا - كَبَسِي كَ
 سَرِينِ پَر لَات مَارْنَا - عَلِيهِ - ظَلَمَ كَرْنَا -
 تَضَافَنَ - الْقَوْمُ عَلِيهِ - مَلَّ كَرْمَدُ كَرْنَا -
 الضُّفْنُ وَالضُّفْنُ - بِوَقُوفٍ - بَجُوفٍ
 قَدْوَالَا - مَوْتَا -
 ضَفَا يُضْفُو ضَفْوًا - الرَّاسُ - سَرَا
 بہت بالوں والا ہونا۔ حَوْضٌ كَا كَنَارُوں پَر
 سے سنا۔ کپڑے کا پورا ہونا۔
 الضُّفَا - جَانِبٌ - شَيْءٌ - مَفْخَوَانٌ -
 مَفْخُوَةُ الْعَيْشِ - مَرْفَعٌ اَلْمَالِ -
 مَفْخُ (رَض) - ضَفَا - اَوَاذِ كَرْنَا -
 صَكَّةٌ (رَن) - ضَكَا - دَبَانَا - اَلْمَوْفَلَانَا -
 تَنَكُّ ہونا۔ كُ بِالْحُجَّةِ - دِل سے
 مغلوب کرنا۔
 صَكَزَا (رَن) - صَكَزَا - زَوْر سے چھبونا۔
 الصُّكْلُ - تھوڑا پانی۔

الضَّيِّكُ - بڑے ہار کا آدمی، تنگ فقیر۔
ج - ضَيَّاكِلُ - ومَيَّاكَلَةُ - الأَضْكُلُ
ننگا۔

ضَلَّ رَسْمُ ضَلَّالًا وَضَلَّالَةً -
کچ راہ ہونا۔ دین سے پھرنا۔ حق راستہ
سے ہٹنا، بھٹکانا۔ صفت رَضَالٌ
ج - ضَلَّالٌ وَضَالُونَ - الطَّرِيقِ
أَوْعْنَةُ - راستہ بھٹکانا۔ الشَّيْءُ
عَنْهُ - چیز کا ضائع ہونا۔ ضَلَّ سَعْيُهُ
کوشش میں ناکام ہونا۔ الشَّيْءُ
چیز کا تلف ہونا۔ الرِّجْلُ - مرکب
اور ہڈیاں ہوجانا۔ الرِّجْلُ - کسی
کو بھول جانا۔

ضَلَّكَ تَضْلِيلًا وَتَضْلَالًا - گمراہ کرنا۔
گمراہ کہنا۔

أَضَلَّ - الشَّيْءُ - ضائع کرنا، تباہ کرنا، ہلاک
کرنا۔ دُفِنَ کرنا۔ غَابَ کرنا۔ ۵ اللہ -
اللہ کا کسی کو گمراہ کرنا - فَلَانٌ
فَرَسَهُ - کسی کے گھوڑے کا ایسا بھاگ
جانا کہ پتہ نہ لگے کہاں گیا۔ الشَّيْءُ او
الرِّجْلُ - گمراہ پانا۔

تَضَالَّ - گمراہی کا دعویٰ کرنا - اِسْتَضَلَّ
گمراہ ہونے کو کہنا۔

الضَّلُّ وَالضَّلَالُ وَالضَّلَالَةُ -
گمراہ، باطل، ہلاکت، کہتے ہیں - هُوَ
ضَلُّ بْنُ ضِلٍّ اَوْ ضِلُّ بْنُ ضِلٍّ
اَوْ ضِلُّ اَوْ ضِلٌّ اَوْ ضِلٌّ اَوْ ضِلٌّ
وہ گمراہی میں مبتلا ہے اس میں کوئی
بھلائی نہیں۔ اس کے باپ کا پتہ نہیں
کہ کون ہے۔

الضَّلُّ - گمراہی، پتھروں کے نیچے بننے والا
پانی یا مہ پانی جو درختوں کے نیچے جو اور
اس کو دھوپ نہ لگی ہو۔

الضَّلَّةُ - ایک گمراہی، حیرانی، نیکی یا بھلائی
کی طلب میں غیر حاضری۔

الضَّلَّةُ - گمراہی - ذَهَبَ دَمَهُ ضَلَّةً -
اس کا خون رائیگاں گیا۔ ذَهَبَ
ضَلَّةً - معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔

الضَّلَّةُ - کامل رہنمائی - الضَّلَّةُ - مونث
الضَّلَّال - گم شدہ چیز جس کی تلاش کی
جائے - جہ ضَلَّالٌ - الضَّلُولُ
گمراہ - الضَّلِيلُ - بہت زیادہ گمراہ -
الْأَضْلُولُ - غلطی۔ گمراہی، باطل۔ جہ -
آضَالِيلُ -

المُضَلُّ - جس میں لوگ گمراہ ہوں۔

المُضِلُّ - فَا - سراب

المُضِلَّةُ وَالْمُضِلَّةُ - گمراہی، ارض
مَضَلَّةٌ وَمَضِلَّةٌ - وہ زمین جس
میں راستہ بھول جائیں۔ جمع میں

أَرْضُونَ مَضَلَّاتٌ کہتے ہیں۔

المُضَلَّلُ بہت گمراہ، گمراہی کا بہت بھٹکا کرنے
کرنے والا جس کو نیکی کی توفیق نہ ہو۔

ضَلَعَ دَنٌ ضَلَاعَةً - قوی مضبوط پسلیوں
والا ہونا۔ صفت رَضْلِيْعٌ

ضَلَعَ دَنٌ ضَلْعًا - الشَّيْءُ - ٹیڑھا ہو
جانا۔ صفت رَضَالِعٌ - الرِّجْلُ -

کسی پر پسلی پر مارنا - عَلَيْهِ -
ظلم کرنا۔

ضَلَعَ رَسْمٌ ضَلْعًا وَضَلْعًا - پیدائشی
ٹیڑھا ہونا۔ صفت رَضْلِعٌ ضَلْعٌ

مَعَ فَلَانٍ - بھٹکانا - الرِّجْلُ -
شکم سیر یا سیراب ہونا۔

ضَلَعَهُ - بھٹکانا - بوجھل کرنا - تَضَلَعَ
خوب سیر یا سیراب ہونا - تَضَلَعَ مِنْ

الْعُلُومِ - علوم سے واقف حصہ پانا۔

رَضَطْلَعٌ - قوی ہونا۔ بِحَمْلِهِ -
بوجھ لے کر کھڑا ہونا او اس کی

قوت رکھنا۔

الضَّلْعُ - مہ - میلان، کچی۔

الضَّلْعُ - مہ - پیدائشی ٹیڑھا پن۔ قوت

اخلاق کی وسعت۔

الضَّلْعُ وَالضَّلْعُ - پسلی - جہ - أَضْلَعُ وَ

ضُلُوعٌ وَأَضْلَاعٌ - ضِلْعُ البَطْنِ

خوبڑے کی قاش - ضِلْعُ السِّنِّ -

چقندر کے پتے کی موٹی رگ۔

الضَّلْعُ - اکیلا پلا ہوا، ابرو، جال، بھندا۔

الضَّلْعَةُ - پسلو - الضَّلْعَةُ - ایک قسم

کی بھلی۔

الْأَضْلَعُ - مضبوط موٹا آدمی - جہ - ضُلْعٌ

الضَّلُوعُ - زمین کا ڈھلوان - الضَّلِيْعُ

مضبوط پسلیوں والا - مضبوط - جہ

ضُلْعٌ - مَونث ضَلِيْعَةٌ - قَوْنٌ

ضَلِيْعٌ وَضَلِيْعَةٌ وَمَضْلُوعَةٌ

جس کمان کی لکڑی میں میلان اور جھکاؤ ہو۔

المُضْلِعُ - مِنْ الْأَحْمَالِ - بوجھل، عاجز

کرنے والا بوجھ۔

المُضْلِعُ - مفع - پہلوؤں والا - دھاری

دار کپڑا۔

ضَمَدَنٌ ضَمًّا - الشَّيْءُ - جمع کرنا -

الشَّيْءُ الْيَدِ - اپنی طرف کھینچنا - عَلَى

الشَّيْءِ - قبضہ کرنا - فَلَانًا الْيَدِ -

ساتھ رکھنا - ضَمَمْتُ إِلَى صَدْرِي -

معاقلہ کرنا لگے ملنا - الْحَرْفُ -

حرف کو ضمہ کی حرکت دینا۔

ضَمَمْتُ - الْيَدِ - ملانا - کھینچنا۔

أَضَمْتُ - الشَّيْءُ إِلَى فَلَانٍ - فلاں کی

طرف بھیجنا۔

أَضَمْتُ - ملنا - عَلَى كَذَا - مستل کرنا۔

تَضَامٌ - الْقَوْمُ - باہم جمع ہونا۔

تَضَمَّ - الشَّيْءُ - پوری طرح شامل ہونا۔

أَضْطَحَّ - اپنی طرف کھینچنا - عَلَيْهِ - پسٹنا

حادی ہونا۔

الضَّمُّ - مہ - (وَالضَّمَّةُ) پیش۔

الضَّمَامُ - ملانے کا ذریعہ - الضَّمُومُ - دو

لمبی پٹائیوں کے درمیان کی وادی۔



الضَّمِيمُ ساجی۔ مؤنث۔ ضَمِيمَةٌ
 الإِضْمَامَةُ جماعت، گروہ۔ ج۔
 اَصْمَامِيْمٌ - مِنَ الْكُتُبِ کتابوں
 کا بٹل۔
 الْمُنْظَمُ - عَلَي كَذَا مُشْتَمِل - ملا ہوا۔
 ضَمَجَرَن ضَمَجَا وَضَمَجَ - جَسَدًا -
 جسم پر خوشبو لگانا۔ ضَمَجَ د
 آضَمَجَ بِالْأَرْضِ - زین سے پیوست
 ہونا۔
 الضَّمَجَةُ کھٹل۔ ج۔ ضَمَجَ
 الضَمَجُ آفت۔
 اِضْطَحَلَ كُنْهًا نَيْسَ ہونا بادل کا اڑنا۔
 ضَمَخَ دَن ضَمَخًا وَضَمَخَ - جَسَدًا -
 بِالطَّيِّبِ بدن پر خوشبو لگانا۔
 نَضَمَخَ وَانْضَمَخَ وَاضْطَمَخَ بِالطَّيِّبِ
 خوشبو سے لٹھڑنا۔
 الضَّمِيخَةُ مؤنث عورت اور لٹنی۔
 ضَمَدَ دَن ضَمَدًا وَضَمَدَ - الْجَوْحَ
 زخم پر پٹی باندھنا۔ ضَمَدًا بِالْعَصَا
 لاٹھی سر پر مارنا۔
 ضَمَدَ دَن ضَمَدًا اِشْشَاک ہونا سخت
 غضبناک ہونا۔ عَلِيَّةً كَسِي سہ کینہ
 رکھنا نفرت کرنا۔ اَضَمَدَ - الْقَوْمَ
 قوم کو جمع کرنا۔ نَضَمَدَ - الْجَوْحَ
 زخم پر پٹی کا بندھ جانا۔ ڈریس ہونا۔
 الضَمَدُ - مَضَمٌ تَرَشَاک نہایت خراب اور
 اچھی مکیاں (ضد) کینہ وری۔
 الضَمَدُ دوست، پیارا۔ الضَمَدُ ظلم
 الضَامِدُ - فَا - پیا۔
 الضَمَادُ وَالضَمَادَةُ وہ پٹی جس سے زخم کو
 باندھا جائے۔ اَنَا عَلَي ضَمَادٍ مِّنَ
 الْأَمِيرِ میں کام کرنے کے نزدیک
 پہنچ گیا ہوں۔
 ضَمَرَنَ وَضَمَرَاک ضَمَرًا - لاغری
 نحیف اور کم گوشت ہونا۔ صفت۔

ضَامِرٌ مؤنث ضَامِرٌ وَضَامِرَةٌ
 ج۔ ضَمَرَدٌ وَضَامِرٌ
 اَضَمَرَ - الْأَمْرَ - مَهِينًا - فِي نَفْسِهِ
 شینٹا۔ اپنے دل میں کسی چیز کا عزم
 کرنا۔ الْخَبَرُ خبر کی تہ تک
 پہنچنا۔ اَضَمَرَتِ الْأَرْضُ فُلَانًا
 زمین نے فلان کو موت یا سفر کی وجہ سے
 غائب کر دیا۔ الشَّاعِرُ شاعر کا
 اَضَمَرَ بَرْتَنًا - ر - وَضَمَنَ الْفَرَسَ
 گھوڑے کو دبلا کرنا۔
 تَضَمَّرَ - دَجْهَةً - لاغری سے چہرہ
 کا سکرنا۔
 اَلضَّمَرُ الْغُصْنُ شاخ کا خشک ہونا۔
 اِضْطَمَرَ دَبْلًا ہونا سکرنا۔ الضَّمَرُ
 لاغر و بے پیٹ والا نازک بدن۔
 مؤنث۔ ضَمَرَةٌ تَنَگ ضَمِيرٌ
 د - وَالضَّمَرُ پوشیدہ۔ الضَّمَرُ
 وَالضَّمَرُ لاغری، دبلا پن۔
 الضَمِيرُ راز پوشیدہ خیال، مرتجیا ہوا
 انکسار، غویوں کے نزدیک وہ کلمہ جو
 متکلم غیاب اور غائب پر دلالت
 کرے، جیسے اَنْتَ، اَنَا، هُوَ۔ ج
 ضَمَائِرٌ
 الضَّمَارُ پوشیدہ، مالا ہوا وعدہ، بشکی جس
 مال کی واپسی کی امید نہ ہو۔ مَن
 الدِّينِ جس کی مدت معین نہ ہو۔
 اِلِضْمَارٌ مَن علم و دین میں دوسرے حرف
 کے اسکان کو کہتے ہیں۔
 الضُّومَرَانُ وَالضُّمَيْرَانُ نازبو کی قسم
 کا ایک پودہ، تلسی۔
 اِلِضْمَارٌ گھوڑ دوڑ کے میدان کی انتہا۔
 گھوڑوں کو سدھانے کا میدان گھوڑوں
 کو سدھانے کا عرصہ۔ گھوڑ دوڑ کا
 میدان۔
 ضَمَرَنَ ضَمَرًا - چپ رہنا۔

الْلُقْمَةُ بڑا لقمہ لگنا۔ عَلَي مَالِهِ
 بھل کرنا۔ صفت (ضَامِرٌ وَضَمُونٌ)
 ج۔ ضَمُونٌ
 الضَّمَرُ وَالضَّمُونُ متناہا، پست
 ٹیلہ۔ ج۔ ضَمُونٌ
 ضَمَسَهُ (ض) ضَمَسًا - آہستہ آہستہ چبانا۔
 ضَمَضَ ضَمَضَةً - دَلَّ كَوْقِي اور بہادر
 بنانا۔ الْأَسَدُ شیر کا دھاڑنا۔
 فُلَانٌ عَلَي الْمَالِ سب مال لے لینا۔
 الضَّمَضُ وَالضَمَاضُ جَرَأَتِ وَالَا۔
 جیم، شیر غصے والا۔
 ضَمِنَ دَن ضَمَنًا وَضَمَانًا - الشَّيْءَ
 وہ۔ ضامن ہونا، کفیل بننا۔ ک۔
 جمع کرنا۔
 ضَمِنَ دَن ضَمَنًا وَضَمَانَةً - الرَّجُلُ
 پرانی بیماری والا ہونا۔ صفت۔ ضَمِنَ
 ضَمِنَ - الشَّيْءَ الْوَعَاءَ چیز کو برتن میں
 رکھنا۔ هُ الشَّيْءَ ذمہ دار بنا دینا۔
 - الشَّاعِرُ شاعر کا تفسیر کرنا۔ یعنی
 دوسرے کے شعر کو اپنے کلام میں شامل
 کرنا۔
 تَضَمَّنَ - الشَّيْءَ شامل ہونا۔ الشَّيْءَ
 عَنِي - اس نے میری طرف سے چیز
 کا ذمہ لے لیا۔
 الضَّمَنُ وَالضَّمْنَةُ وَالضَّمَانُ و
 الضَّمَانَةُ تِیہ پر نام مرض، زمانہ۔
 الضَّمْنُ چیز کا اندرون۔ ضَمْنُ الْكِتَابِ
 کتاب کا لپیٹ۔
 الضَّمِنُ عاشق، پرانی بیماری والا۔ هُوَ
 ضَمِنَ عَلَي اهْلِهِ وہ اپنے گھروالوں
 پر بوجھ ہے۔
 الضَّامِنُ - فَا - کفیل، ذمہ دار۔ الضَّمِنُ
 کفیل مرض کمنہ میں مبتلا۔ ج۔ ضَمْنِي
 الضَّمَانُ مَن نَاوَانُ تَوْنُهُ کفالت۔
 الضَّمُونُ منع، مضمون، مکفول۔ ج۔

مَضَامِيْنُ - المَضَمَّنُ مِنْ
الْأَصْوَاتِ. غير مکل آواز۔
ضَنَقَ رَسٌ ضَنَادِضًا وَضَنَنَةً وَ
ضَنَانَةً وَضَنَنَةً وَاضْطَنَّ -
بالشئ. بخل کرنا۔ ضَنَقَ بِالْمَكَانِ.
مکان نہ چھوڑنا۔

الضَّنُّ وَالضَّنَّةُ - مم۔ وہ چیز جس میں بخل
کیا جائے۔ خاص۔

الضَّنُّ - بہادر۔ الضَّنِيْنُ - بخیل۔

لَا تَمَّا يَضُنُّ بِالضَّنِيْنِ - اس سے

بھائی چارہ رکھنا چاہیے جو تجھ سے

بھائی چارہ رکھے (یہ فقرہ مثال کے طور

پر بولا جاتا ہے)

الضَّنَائِيْنُ - وہ چیزیں جن کی نفاس کی

وجہ سے بخل کیا جائے۔ ضَنَائِيْنُ

اللہ خدا تعالیٰ کی مخلوق میں خواص لوگ۔

الضَّنَانَةُ - مم۔ بخل کرنا۔ المَضَنَّةُ وَ

المَضْنَةُ - وہ چیز جس پر بخل کیا

جائے۔ ج۔ مَضَاتٌ

ضَنَادِنُ، ضَنَاءٌ وَضُنُوءٌ - چھپنا۔ فی

الارض۔ جانا۔ السَّالُ - مال

زیادہ ہونا۔

ضَنَاتُ رَنٍ، ضَنَاءٌ وَضُنُوءٌ وَضُنَيْتُ

رَسٍ، ضَنَاءٌ وَضَنَاتُ الْمَرْأَةِ

عورت کا بہت اولاد وال ہونا۔ صفت

رَضَانِيٌّ وَضَانِيَّةٌ - ج۔ ضَوَائِيٌّ

اضْطَنَّ - کہ وہینہ۔ شرمنا۔

الضَّنَاءُ - اصل کان، نسل کی کثرت۔

ج۔ ضُنُوءٌ

الضَّنُّ وَالضَّنُّ - اولاد اس کا

واحد نہیں،

الضَّنَاءَةُ وَالضَّنَاءَةُ - ضرورت۔

ضَنَبَ رَنٍ، ضَنَبًا - بک الارض۔ نہیں

پر ٹپک دینا۔ بک۔ قبضہ کرنا۔

ضَنَطَ رَسٌ، ضَنَطًا - الشَّحْمُ - چربی

کاموٹا اور بھوس ہونا۔

الضَّنَطُ - القَوْمُ - بھیڑ کرنا۔ الضَّنَطُ

تنگی، مصیبت۔

الضَّنَطُ - مم۔ چربی، نشاط، شیخی۔

الضَّنَاطُ - کنویں وغیرہ پر بڑی بھیڑ۔

ضُنْكَ دَكٍ، ضُنْكَ - کمزور کے یا جسم

یا عقل والا ہونا۔ صفت۔ ضُنْيُكَ

ج۔ ضُنْكَ - ضُنْكَ - ضُنْكَ وَضُنْكَاد

ضُنُوْكَ (تنگ ہونا۔

ضُنْكَ ضُنْكَ - زکام والا ہونا۔

الضَّنْكَ - مم۔ ہرنگ شے (مذکر مؤنث)

الضَّنْكَ - (مذکر مؤنث) مضبوط جسم

والا۔ درخت۔

الضَّنْكَ وَالضَّنْكَ - نکام۔

الضَّنْكَ - مم۔

الضَّنْيُكَ - تنگ زندگی، تنگ گذران، محض

خوار کی پر خدمت کرنے والا۔ کٹی ہوئی چیز۔

ضَنِي رَسٍ، ضَنِي - بیماری سے کمزور و نحیف

ہونا۔ صفت (ضَنِي وَضَنِي) الف

مقصودہ کے ساتھ صفت ہو تو اس میں

مذکر مؤنث، واحد جمع برابر ہیں اور

اگر کسیر لون کے ساتھ ہو تو پھر مذکر و

تانیث وحدت وجمع میں مطابقت

رہے گی۔

ضَانِي مَضَانَاةً - الشَّيْءُ أَوِ الْأَمْرُ

تکلیف برداشت کرنا۔

أَضْنِي (ضَنَاءٌ - البَرَضُ فَلَانًا - بیماری

کا کسی کو سست ونا کارہ بنانا۔

الرَّجُلُ - بیماری کی کمزوری سے

صاحب فرش ہونا۔

تَضَنِي - بیمار بننا۔ اِلْضَنِي - کمزور ہونا

سست ہونا۔

الضَّنِي - بیماری، لاغری، بد حالی۔

الضَّنُو وَالضَّنُو وَالضَّنِي - اولاد۔

الضَّنِي - خوفناک درو۔

ضَنَّتْ تَضَنِي وَضَنِيَّتْ تَضَنِي ضَنِي
وَضَنَاءٌ - الْمَرْأَةُ عَوْرَتُ كَاثِرٍ
الاولاد ہونا۔

ضَهَبَتْ رَنٍ، ضَهَبًا - بالنار۔ آگ

سے متغیر کرنا۔

ضَهَبَ رَنٍ، ضَهَبًا - کمزور ہونا۔

ضَهَبَ - اللَّحْمُ - نیم بریان کرنا۔

القوس۔ کانوں کو نرم کرنے کے لیے

آگ پر تپانا۔ صفت (ضَهَبَاءُ) ضَهَبَ

القوم۔ زیادہ ہونا۔ تیز چلنا۔

ضَاهَبًا مَضَاهَبًا - بڑا بڑا کرنا۔ گالی

گولی کرنا۔ ضَهَبَ القوم - مخلوط لوگ

الضَّهَبُ - پہاڑ کا وہ حصہ گرم، جس پر سخت

گرمی پڑتی ہو۔

ضَهَبَتْ رَنٍ، ضَهَبًا - سخت روندنا۔

ضَهَبَتْ رَنٍ، ضَهَبًا - غلبہ کرنا۔

أَضَهَبَتْ وَأَضَهَبَتْ بَاءً وَأَضَهَبَتْ

دباؤ ڈالنا۔ ظلم کرنا۔ ستانا۔ مجبور کرنا۔

بوجھ، مذہب، نقصان دینا۔

الضَّهْدَةُ - غلبہ، قمر۔ الضَّهْدَةُ

بہت سخت۔

الضَّهْرُ وَالضَّاهِرُ - پہاڑ کی چوٹی۔ وادی۔

الضَّهْرُ - کھجوا۔

ضَهْرُهُ وَضَهْرُهُ رَنٍ، ضَهْرُهُ وَضَهْرُهُ

سخت روندنا۔ الدَّائِبَةُ - جانور کا آگے

کے دانوں سے کاٹنا۔

ضَهْلَ رَنٍ، ضَهْلًا وَضَهْلًا - اللَّبَنُ -

دودھ کا تھوڑا تھوڑا جمع ہونا۔ الدَّائِبَةُ

وَنَحْوَهَا - اونٹنی وغیرہ کا دودھ کم ہونا۔

صفت (ضَهْلٌ) - ج۔ ضَهْلٌ -

ضَهْلَةٌ - حَقَّةٌ - حق کم کرنا۔ ر۔ و

تَضَهَّلَ - إِلَى فَلَانٍ - بغیر لڑنے کی

نیت کے کسی کی طرف لوٹنا۔

أَضَهَّلَ - النَّخْلُ - درخت تو مار پر کھجوروں

کا پکڑنے لگنا۔ إِلَى فَلَانٍ مَالًا - مال

ض

کوفل کی طرف کر دیا۔
 اِسْتَضَلَّ - الخَبَرُ حَسْبَ مَكَانٍ خَبْرٌ طَلَبُ
 کرنا۔ الضَّلَلُ - جمع شدہ دودھ۔
 تَهَوَّرَ اِيَّانِي - الضَّاهِلَةُ - مِنَ
 العُيُونِ - کم پانی کا چشمہ۔
 صَهَيْتُ تَضَهَّى ضَهًى - الْمَرَاةُ -
 عورت کا بے پستان والی اور بے دودھ
 والی ہونا۔ صَفَتْ (ضَهِيَاءُ)
 ج۔ ضَهًى - صَهَيْتِ الارضَ زَيْنَ
 کا بچہ ہونا۔
 ضَا هًى هَضَاهَاةً - الرَّجُلُ مِثْلُهَا هُونَا
 الضَّهِيَّ - مشابه۔
 ضَاءٌ يَضُوُّ ضَوْءًا وَضَوْءًا وَضِيَاءٌ -
 التَّضَوُّ وَخَبْرٌ - پانڈ وغیرہ کا چمکنا
 روشن ہونا۔
 ضَوًّا تَشْوِيَةً - الْبَيْتُ - روشن کرنا۔
 چمکانا۔ عَنِ الْاَمْرِ پھرنا۔
 اَضَاءَ اَضَاءَةً - الْبَيْتُ - روشن ہونا۔
 الْبَيْتُ - روشن کرنا۔
 تَضَوَّى - اندھیرے میں اس لیے کھڑا ہونا
 کہ جو لوگ آگ کی روشنی میں ہیں۔ یہ ان
 کو دیکھ سکے۔
 اِسْتَضَاءَ - بَلَّ - روشن ہونا۔ مِنْ
 مُلَانٍ - مشورہ کرنا۔
 الضَّوُّ وَالضُّوُّ - ج۔ اَضْوَاءُ وَالضِّيَاءُ
 وَالضَّوَاءُ - روشنی۔
 الضَّوِيُّ وَالْمُضِيُّ - روشن کرنے والا۔
 ضَا بَحٌ يَضُوُّهُ ضَوْجًا - بَحْنٌ كَذَا - مائل
 ہونا پھرنا۔ اَعْرَاضُ كِرَادٍ - اَنْضَجَ
 الْوَادِي - وادی کا وسیع ہونا۔
 تَضَوَّجَ - الْوَادِي - وادی کا بہت پیچدار
 ہونا۔ الضَّوُّجُ - وادی کا موڑ۔ ج
 اَضْوَا ج - الضَّوْجَانِ بَشْكٍ سَعَتِ
 ضَوَّجَ - الْكَبْنُ - دودھ میں پانی
 ملانا۔

ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا - سَعَتِ بَهْوَكَ هُونَا -
 نقصان دینا۔
 تَضَوَّرَ - بَهْوَكَ يَادِرُو سَعَتِ يَبْحُ وَتَابَ كَهَانَا -
 الذَّيْبُ دِنْحُو - بَيْطَرِي وَغَيْرُهَا
 بَهْوَكَ سَعَتِ جَلَانَا -
 الضَّوَرُ - سَعَتِ بَهْوَكَ - (الضَّوَرُ - سِيَاهُ
 بَادِل - الضَّوَرُ - حَقِيرٌ ذِيلٌ بَدِ
 نَصِيب -
 ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا - الْغَمَّةُ - پھل
 کو منہ میں چبانا۔ هُحَقَّةٌ - حَقْ كَم
 دینا۔ ضَوْضِي ضَوْضَاءٌ وَضِيضَاءٌ
 شُورُ وَغَوْنَا کرنا۔
 الضَّوْضِي وَالضَّوْضَاءُ وَالضِّيْضَاءُ -
 شُورُ وَغَوْنَا۔
 ضَوَّطَ - الْأَشْيَاءُ - بہت جمع کرنا۔
 تَضَوَّطَ - جمع کرنا۔
 الْأَضَوَّطُ - طَرَفٌ جَبْرٌ وَالْأَضَوَّطُ -
 الضَّوْطِطَةُ - اجتنی حوض کے پینڈے
 کی مٹی۔ ڈھیلا۔ خمیر۔
 ضَاعَ يَضُوعٌ ضَوْعًا حَرَكٌ دِنَانٌ بَحْنِي
 مِثْلُ دَانَا - گھبرا دینا۔ ضَاعَ الْمَشْكُ
 مَشْكٌ كِي خُوشْبُو کا پھیلنا۔ الدَّابَّةُ
 جَانُورٌ كُو دَبْلَا کرنا۔ الصَّبِيءُ - بچہ کا
 رونے میں پیچ و تاب کھانا۔
 تَضَوَّعَ - خُوشْبُو کا چمکانا۔ بچہ کا رونے میں
 پیچ و تاب کھانا۔ د - اِنْضَاعٌ -
 الْفَرْخُ - پرندہ کے بچہ کا چوگے کے لیے
 اپنی مائل کی طرف بازوؤں کو پھیلانا۔
 الضُّوْعُ وَالضُّوْعُ - رات کا ایک پرندہ،
 نر، اُو۔
 الضُّوَاعُ - رات کے پرندہ کی آواز
 الْمَضُوعُ - خوف زدہ۔
 ضَا تَ يَضُوتُ ضَوْثًا - عَنِ الشَّيْءِ -
 الگ ہونا۔
 ضَانَ يَضُونُ ضَوْنًا - زِيَادَةُ اَوْلَادِ هُونَا -

الضَّوْنَةُ - جھوٹی بچی۔
 الضَّيُونُ - بَلَا - ج۔ ضَيَارُونُ -
 الضَّوْعُ - شُورٌ لَطَائِي كَاشُورُ
 ضَوًى يَضُوًى رَسٌ ضَوًى - خِلْقَتُهُ -
 دُپلے پن سے پتلی ہڈی والا ہونا۔
 ضَوًى رَضٌ هَبِيًا وَضَوًى - اِيْلَهُ - ملنا۔
 پناہ لینا۔ رات کو آنا۔
 اَضَوًى - نَحِيفٌ وَدَبْلَا هُونَا - الرَّجُلُ كَمُرُورُ
 کرنا۔ هُحَقَّةٌ - کسی کا حق کم کرنا۔
 الْاَضَرُ - کچا کام کرنا۔ اَضَوَّتِ الْمَرَاةُ
 عورت کا کمزور بچہ ہونا۔
 اِنْضَوًى اِنْضَوَاءً - اِيْلَهُ - ملنا۔
 الضَّارِي - فَا - رات کو آنے والا۔ الضَّارِي
 کمزور، دبلا، اکری ہڈی والا۔ مَوْنُث -
 ضَارِيَّةٌ -
 ضَا جَرٌ يَضِيْجُ ضِيْجًا وَضِيْجًا وَضِيْجَانًا -
 عَنَهُ وَ اِيْلَهُ - جھکانا۔ مائل ہونا۔
 ضَا جَتٌ عِظَامُهُ - لاغری کی وجہ سے
 ہڈیوں کا مل جانا۔
 ضَا حَتٌ تَضِيْجُهُ ضِيْجًا - اِيْلَادُ -
 ملک کا خالی ہونا۔ ویران ہونا۔ ضَا حٌ
 وَضِيْجٌ - الْكَبْنُ - دودھ میں پانی
 ملانا۔ تَضِيْجٌ - الْكَبْنُ - دودھ کا
 پانی سے ملنا۔ الرَّجُلُ - پانی ملا
 دودھ پینا۔
 الضِّيْجُ - مَم - شَدِيدٌ - وَالضِّيَا حٌ - پانی
 ملا دودھ۔ شُورَا۔
 ضَارَ كُيَضِيْرُكَ ضَيْرًا - الْأَمْرُ -
 نقصان دینا۔ اِنْدَاوِنَا۔
 ضَارَ يَضِيْرُهُ ضَيْرًا ظَلَمَ کرنا۔ حَقْ كَم دینا۔
 الضِّيْرُ - مَم - كَبِي - قِسْمَةُ ضِيْرِي
 ظالمانہ تقسیم۔
 ضَا طٌ يَضِيْطُ ضَيْطًا وَضَيْطَانًا - رَفِي
 مَشِيْبَتِهِ - موٹاپے کی وجہ سے چلنے میں
 جسم اور کانڈھوں کو ہلانا۔ صَفَتْ -

صَيِّطَانٌ وَصَيَّاطٌ.
صَاعٌ يَصِيْعُ صَيِّعًا وَصَيِّعَةً وَ
صَيَّاعًا. ضائع ہونا. ہلاک ہونا. تلف
ہونا. بیکار ہونا۔ صفت (صَائِعٌ)
جر۔ صَيِّعٌ وَصَيَّاعٌ.
صَيِّعٌ۔ الشیء کھنا۔ کم کرنا۔ ہلاک کرنا۔
أَصَاعَةً. ضائع کرنا۔ کم کرنا۔ کھنا
أَصَاعَ الرَّجُلُ۔ بہت جائیداد
والا ہونا۔
تَصَيَّعَ۔ الْمِسْكُ۔ مشک کا بھڑکنا۔
مشک کی خوشبو کا پھیلنا۔
الصِّيَاعُ۔ مم۔ ایک قسم کی خوشبو۔ بے فائدہ
الصَّيِّعَةُ۔ جائیداد۔ زمین، سیر حاصل، تصفیر
صَيِّعَةً۔ جمع صَيِّعٌ وَصَيَّاعٌ وَ
صَيِّعَاتٌ۔
الصَّيِّعَةُ۔ پیشہ۔
المُصَيَّاعُ۔ بہت ضائع کرنے والا۔
المُصَيِّعَةُ وَ الْمُصَيِّعَةُ۔ جہاں ضائع ہونے
کے اسباب زائد ہوں۔
صَاتَ يَصِيْفُ صَيِّفًا۔ الیہ۔ مائل ہونا
بٹنا۔ صَاتَتِ الشَّمْسُ۔ سورج کا
دوبنے کے لیے جھکنا۔ السهم عَنِ
الْهَدَفِ۔ تیر کا نشانہ سے ہٹ جانا۔
الرجلُ خَفَّ. منہ۔ ڈرنا۔
صَاقَةٌ يَصِيْفُهُ خَيِّفًا وَصَيَّافَةً۔ کسی
کا مہمان ہونا، مہمانی طلب کرنا۔
صَيِّفَةٌ۔ مہمان بنانا، صیافت کا کھانا پیش کرنا
فَيِّفَةً۔ الیہ۔ جھکانا۔ صَيِّفَتْ۔

الرجلُ مائل ہونا۔ بٹنا۔ الشَّمْسُ۔
سورج کا غروب ہونے کے لیے مائل ہونا۔
أَصَافَ۔ الرجلُ۔ دوڑنا۔ جلدی چلنا۔ خوف
کھانا۔ الشیء الی الشیء۔ جھکانا۔
سہارا دینا۔ ملا لینا۔ الرجلُ۔ پناہ
دینا۔ مجبور کرنا۔ منہ۔ ڈرنا۔ علیہ
جھکانا۔ فَلَانًا عَلَى فَلَانٍ۔ مہمان
اتارنا۔ الْكَلِمَةُ إِلَى الْكَلِمَةِ۔ ایک
کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف ایک خاص
طریقہ سے نسبت کرنا
تَصَيِّفَةٌ۔ مہمان ہونا۔ صیافت طلب کرنا۔
تَقَيِّفَ الرَّجُلُ۔ مائل ہونا۔ الشمسُ
غروب کے لیے جھکنا۔
الْمُضَافُ۔ الیہ۔ ملنا۔ تَضَافَ الْوَادِي
وَادِي كَاتِنَا۔
اِسْتَضَافَهُ۔ صیافت طلب کرنا۔ اِسْتَضَافَتْ
بہ۔ فریاد کرنا۔ مِنْ فَلَانٍ إِلَى
فَلَانٍ۔ پناہ لینا۔
الضَّيْفُ مہمان (واحد جمع، مؤنث)۔ ضَيْفٌ
وَضَيْفَةٌ۔ جر۔ أَضْيَافٌ وَضُيُوفٌ وَ
ضِيَافٌ وَضَيْفَاتٌ وَ أَضَافَتْ۔
الضَّيْفُ۔ طفیل، مہمان کے ساتھ آنے والا۔
الضَّيْفُ۔ پہلو۔
الضَّيَافَةُ۔ مہمانی۔ الْمُضَافُ فِي الْحَرْبِ
جنگ میں گھرا ہوا۔
الْمُضَيِّفُ وَ الْمُضَيِّفَةُ۔ مہمانوں کا گھر
مہمان خانہ
الْمُضَيِّفُ۔ بڑا مہمان نواز۔ مِزْبَانُ۔ الْمُضَيِّفَةُ

وَالْمُضَيِّفَةُ۔ غم فکر۔
هَاضًا لَفً۔ الْوَادِي۔ وادی کے پہلو۔
صَاقٌ يَصِيْقُ ضَيْقًا وَضَيْقًا۔ تنگ ہونا۔
صفت (ضَيْقٌ وَضَائِقٌ وَضَيْقٌ)
الرجلُ۔ بھل کرنا۔
صَيِّقَةٌ تَضَيِّقًا۔ تنگ کرنا۔
أَضَاقَهُ إِضَاقَةً۔ تنگ کرنا۔ أَضَاقَ
الرجلُ۔ محتاج ہونا۔
تَضَيَّقَ وَ تَضَائِقٌ۔ تنگ کرنا۔ تَضَائِقَ
الامرُ بِهِ اِدْعِيهِ۔ اس پر کام
مشکل ہو گیا۔
ضَائِقَةٌ مُضَافَةٌ۔ سختی کا بڑنا و کرنا۔
الضَّيْقُ وَالضَّيْقُ۔ سختی، شدت، رنج، افسوس۔
الضَّيْقُ وَالضَّيْقُ۔ شک۔
الضَّيْقَةُ وَالضَّيْقَةُ۔ بد حالی۔ محتاجی۔
جر۔ ضَيْقٌ وَضَيْقٌ۔
الضَّائِقُ۔ تنگ۔ جر۔ ضَائِقَةٌ۔
الضَّيْقُ۔ بہت تنگ۔ بَوْنٌ ضَيْقٌ وَ
صَوْقٌ۔
الْمُضَيِّقُ۔ تنگ جگہ، مشکل کام، درہ، گھاٹی۔
جر۔ مَضَائِقٌ۔
ضَامَةٌ يَضِيْمُهُ ضَيْمًا۔ ظلم کرنا۔ دباؤ ڈالنا۔
ضَامَةٌ وَ اِسْتِضَامَةٌ۔ حققت۔ کسی کا
حق کم کر لینا۔
الضَّيْمُ۔ ظلم۔ جر۔ ضَيْمٌ۔ ضَيْمٌ
الجبیل۔ پھاڑ کا کنارہ۔
الضَّامَةُ۔ حاجت، ضرورت۔

طَاطًا۔ الرَّاسُ وَغَيْرُكَ۔ سر جھکانا۔
پست کرنا۔ نیچا کرنا۔ فَرَسَةً۔ گھوڑے
کو دوڑانے کے لیے اس کی دونوں

کو کھوں میں اڑا لگانا۔ طَاطَاتٍ
الْمَرْأَةُ سَتَرَهَا۔ عورت کا پردہ
ڈالنا۔ طَاطَا يَدَا بِالْعَيْنَيْنِ۔

دوڑانے کے لیے باگ کو ڈھیلی چھوڑنا۔
الْحُفْرَةُ۔ گڑھے کو گہرا کھودنا۔
فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ۔ کسی کو مرتبہ سے



گراوینا۔

طاطاء۔ نیچے ہونا۔ پست ہونا۔

الطاطاء۔ پست زمین۔ چھوٹا اونٹ۔

کتابۃ دن منی، طبائے علاج کرنا۔ کتب

الرجل نرمی کرنا۔ تیزی سے کام نہ لینا۔

”مَنْ أَحَبَّ طَبَّ“ جو دوست رکھتا ہے

نرمی کرتا ہے۔ خُودَ الْقُوْبَةِ۔ مشک

میں پیوند لگانا۔

کلب۔ الرجل۔ جادو کیا جانا۔ کلبۃ۔

علاج کرنا۔ طَبَّ الْخَبِاطِ الثَّوْبِ۔

ورزی کا کپڑے میں پیوند لگا کر اس کو بڑھانا۔

۔ الْقَبِيْة۔ مشک میں پیوند لگانا۔

طاب، مُطَابَّةٌ۔ الامور۔ مزاوت کرنا۔

تَعْبِيْة۔ اسرجل۔ طیب بننا۔ طب

پڑھنا۔ علاج کرنا۔

اِسْتَعْلِيْة۔ دوائی دریافت کرنا۔ طیب

سے مشورہ لینا۔

الطَّبُّ۔ صم۔ ماہر طیب، وانا۔ کتب

میں ”هُوَ طَبٌّ بِهَذَا الْاَمْرِ“ وہ

اس کا عالم ہے۔

الطَّبُّ خواہش، ارادہ، حالت، عادت۔

فُلَانٌ طَبٌّ الْمَجُوْنُ۔ فلال کی عادت

مذاق کی ہے۔

الطَّبُّ وَالطَّبُّ وَالطَّبُّ۔ جسمانی اور

روحانی علاج، نرمی، جادو۔

الطَّبَابُ۔ وہ چیز جس سے علاج کیا جائے

کتے ہیں۔ ”هَذَا طَبَابٌ مَرَضِيٌّ“

الطَّبَّةُ۔ مونث الطَّبُّ۔ کنارہ۔

الطَّبَّةُ۔ جر۔ طَبَّبَ وَالطَّبَابَةُ۔ جر

طَبَابٌ۔ زمین یا بادل یا کپڑے وغیرہ

کا لبا لکڑا۔

الطَّبِيْبُ علم طب کا جاننے والا۔ فن طب

میں ماہر و عاذق۔ جر اَطَبَّهٗ وَاَطَبَّاءُ

مونث طَبِيْبَةٌ۔

طَبَّحَ طَبَّحًا۔ الرجل۔ بیوقوف ہونا۔

صفت رَاطِبِجٍ، عَلٰی رَاسِهِ و

عَلٰی كُلِّ اَجْوَفٍ۔ سر یا ہر کھوکھلی چیز

پر مارنا۔

تَطْبِيْجٌ۔ فی الکلام۔ مختلف رنگوں میں

کلام کرنا۔

طَبَّخَ رَن، طَبَّخًا وَطَبَّخَ۔ اللَّحْمَ

گوشت پکانا۔ الصَّبِيْءُ۔ بچہ کا

حرکت کرنا اور بڑھنا۔ اَلطَّبِيْخُ۔ پکنا۔

اَطْبَخَ۔ الرجل۔ بکی ہوئی چیز لینا۔ یا

اپنے لیے پکانا۔ اللَّحْمَ۔ گوشت

پکانا۔

الطَّبَّخُ۔ صم۔ ر۔ و الطَّبَّخُ، بکی ہوئی

خوراک۔

الطَّبَّاخَةُ۔ ہانڈی کا جھاگ، بکی ہوئی خوراک۔

الطَّبَّاخَةُ۔ پکانے کا برتن، باورچی گری۔

الطَّبَّاخُ۔ بیکلنے والا۔ اس کو ”طاحی“ بھی

بولتے ہیں۔ عوام طَبَّاخُ اُکھیٹھی کو کہتے

ہیں مگر مناسب یہ ہے کہ اسے مِئْصِبٌ

کہا جائے۔

الطَّبِيْخُ۔ پکا ہوا کھانا۔ چونہ۔ پختہ اینٹ۔

جر۔ اَطْبَخَ۔

الطَّبَّاخُ۔ فا۔ شدید بخار۔

الطَّبَّاخَةُ۔ مونث الطَّبَّاخُ۔ دہر۔

الطَّبَّاخُ وَالطَّبَّاخُ۔ مضبوطی، قوت،

موٹاپا۔ مَا فِيْ كَلَامِهِ طَبَّاخٌ۔

اس کے کلام میں کوئی فائدہ نہیں۔

الْاَطْبَخُ۔ الحق بہت زیادہ بیوقوف۔

الْمُطَبَّخُ۔ باورچی خانہ۔ جر مَطْبَاخُ۔

الْمُطَبَّخُ۔ پکانے کا آلہ۔ جر۔ مَطْبَاخُ

الْمُطَبَّخُ وَالْمُطَبَّخُ۔ باورچی خانہ

طَبَّرَ رَن، طَبَّرًا۔ کوونا۔ پھینا۔

الطَّبَّرُ وَالطَّبَّرُ زَيْنٌ۔ کھانڈا۔ طبر

(دونوں کلمے داخل ہیں)

الطَّبَّارُ۔ انجیر کے مشابہ ایک درخت۔ واحد

رُطْبَارَةٌ، الطَّبَّرِيُّ۔ طبرستان کی

طرف منسوب

طَبَّرَكَ رَن، طَبَّرًا۔ بھڑنا۔

الطَّبَّرُ۔ ہار کا رکن، دو کوٹان والا اونٹ۔

طَبَّسَ۔ گارے سے یبنا۔

الطَّبُّسُ۔ ہر ایک کالی چیز۔

الطَّبُّسُ۔ بھیڑیا۔

الطَّبُّشُ۔ لوگ۔ الطَّبَّشَةُ۔ ایک لمبی چھڑی

جس سے لوگ بچوں کو ہارتے ہیں عامہ اور فصیح

الْمُخَفِّقُ ہے۔

طَبَّطَ۔ طَبَّطَةً۔ المَاءُ وَالسَّيْلُ۔

پانی یا سیلاب کا آواز دینا۔ وادی کا بہنا۔

پانی کو حرکت دینا۔

الطَّبَّاطِيَّةُ۔ گیند کا بلا۔ الطَّبَّاطِيَّةُ۔

مارنے کا کوڑا۔

طَبَّعَ طَبَّعًا۔ الشَّيْءُ۔ تصویر بنانا۔ علیہ

مہر لگانا۔ الدَّرْهَمُ۔ سکہ ڈھالنا

۔ السَّيْفُ۔ تلوار بنانا۔ ڈھالنا۔

اللَّهُ الْخَاقُ۔ پیدا کرنا۔ الدَّلْوُ۔

ڈول بھڑنا۔ طَبَّعَ اللَّهُ عَلٰی قَلْبِهِ۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگادی، یعنی

وہ نیکی کی توفیق سے محروم ہو گیا۔

طَبَّعَ رَسَ طَبَّعًا۔ گندا ہونا۔ میلا کچھلا ہونا۔

گندے اخلاق والا ہونا۔ السَّيْفُ۔

تلوار پر زنگ پڑھ بانا، صفت رَطْبَعٌ و

اَطْبَعُ،

طَبَّعَ۔ عَلٰی الْجَهْلِ۔ جہالت پر پیدا

کیا جانا۔

طَبَّعَ۔ الْاِنَاءُ۔ برتن بھڑنا۔ گندا کرنا۔

تَطْبَعُ۔ بھڑنا۔ ڈھلنا۔

تَطْبَعُ۔ رَطْبَاعَ اَبِيْہِ۔ اپنے باپ کے

سے اخلاق اختیار کرنا۔ الشَّہْرُ

بِالْمَاءِ۔ دریا کے پانی کا کناروں سے

اُبل پڑنا۔ بہر پڑنا۔

الطَّبَّعُ۔ بھر جانا۔ ڈھلنا۔

الطَّبَّعُ۔ صم۔ مزاج، فطری، خصلت، مثال

نمونہ۔ ج۔ طَبَّاعٌ۔

الطَّبَّاعُ۔ پانی جذب ہونے کی جگہ۔ پیمانہ بھر۔
مشکیزہ، دریا۔ ج۔ طَبَّوعٌ وَطَبَّاعٌ۔
(وَالطَّبَّاعُ) زنگ، میل، عیب۔ ج۔
أَطْبَاعٌ۔

الطَّبَّاعُ۔ بدعتی، کینہ عادت کا۔

الطَّبَّاعُ۔ فا۔ (ر۔) وَالطَّبَّاعُ (مزاج، فطری
خصات۔

الطَّبَّاعُ وَالطَّبَّاعُ۔ مُسْر، انگوٹھی۔ ج۔
طَوَابِعُ۔

الطَّبَّاعُ۔ طابع اسم فاعل کا مبالغہ۔
الطَّبَّاعَةُ۔ تلوار سازی، چھاپنے کا پیشہ

دار الطَّبَّاعَةِ۔ تلوار بنانے کا کارخانہ۔
الطَّبَّاعَةُ۔ فطرت، مزاج، فطری عادت۔

ج۔ طَبَّائِعُ۔
الطَّبَّائِعُ الْأَرْبَعَةُ۔ سردی، گرمی،
خشکی، تری

الطَّبَّائِعُ۔ جو طبیعت کے ساتھ منقص ہو۔ جو
ہر چیز کو طبیعت کی طرف منسوب کرے

علم طبیعات کا ماہر۔ علم طبیعات، علم
خواص اشیاء۔

الطَّبَّاعَاتُ۔ مہر لگانے کی چیز۔
الْمُطَبَّعَةُ وَالْمُطَبَّعُ۔ چھاپنے کا پریس۔

ج۔ مَطَابِعُ۔
الْمُطَبَّوعُ۔ مفع۔ چھپا ہوا۔ پسندیدہ۔

مِنَ الشُّعْرَاءِ بَلَا تَكَلَّفَ شَعْرًا كَتَمَ وَاللَّـ

طَبَّقَتْ (دس) طَبَّقًا وَطَبَّقًا۔ کدو،
ہاتھ کا بند ہونا۔ پہلو سے لگنا۔ طَبَّقَ

كَيْفَعَلُ الشَّيْءِ شروع کرنا۔ کرنے لگنا۔
طَبَّقَ۔ المنعی۔ چھیننے کا عام ہونا۔

السَّحَابِ الْبَحْرُ۔ بادل کا فضا کو ڈھک
لینا۔ السَّيْفُ الْمَفْصَلُ۔ تلوار

کا جوڑ پر لگ کر عضو کو جدا کرنا۔ طَبَّقَ
الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ۔ حاکم کا درست

فیصل کرنا۔ الْفَرَسُ۔ گھوڑے کا

دوڑنے میں کودنا۔

طَابَقَهُ طَبَاقًا وَمُطَابَقَةً۔ موافق ہونا۔
طَابَقَ۔ بَیْنَ الشَّيْئَيْنِ۔ دونوں کو ایک

طریقہ پر کرنا۔ بَیِّنٌ قَدِ مَيَّصَيْنِ۔
قیصوں کو اوپر نیچے پہننا۔ عَلَى الْأَمْرِ

برابر کرنا۔ الرَّجُلُ عَلَى الْأَمْرِ۔
عادی ہونا۔ بِالْحَقِّ۔ یقین کرنا،

اقرار کرنا۔ الْمُقَيَّدُ۔ قیدی کا
قَرِيبٌ قَرِيبٌ قَدَمٌ رُكْنًا۔ الْفَرَسُ فِي

جَوْبٍ۔ گھوڑے کا پچھلے پاؤں کو چلنے میں
اگلے پاؤں کے نشانوں پر رکھنا۔

أَطْبَقَ۔ الْمَشِيُّعُ۔ ڈھانپنا۔ اللَّيْلُ۔ رات
کا تاریک ہونا۔ النُّجُومُ۔ ستاروں

کا کثرت سے ظاہر ہونا۔ أَطْبَقَ
الرُّجُلُ۔ بیک کے اوپر کمر پاٹ کو نیچے

کے پاٹ پر رکھنا۔ أَطْبَقَ۔
شَفَقَتِ الْبُحْرُ۔ چپ رہو۔ أَطْبَقَ

الْمَرْكَبُ۔ کوع کی حالت میں اپنے دونوں
ہاتھوں کو دونوں رانوں کے درمیان

رکھنا۔ أَطْبَقُوا عَلَى الْأَمْرِ۔ کام پر
متفق ہونا۔ أَطْبَقَتِ الْحُشَى

عَلَيْهِ۔ بجا کرات و دن چڑھا رہنا۔
تَطَابَقَ۔ الْقَدَمُ۔ قوم کا اتفاق کرنا۔

تَطَبَّقَ وَالْمُطَبَّقُ۔ الشَّيْءُ۔ بند ہونا۔
الطَّبَّقُ۔ مطابق، دن کی ایک گھڑی پر ندوں

کو شکار کرنے کا لاسہ۔ الطَّبَّقُ
مِنَ النَّاسِ۔ لوگوں کی جماعت۔

الطَّبَّقُ۔ صغ۔ مطابق، پردہ، بڑی پلیٹ۔
بڑی نشتری۔ ج۔ أَطْبَاقٌ۔ زمین کی

سطح، پیٹھ کے منکے، دن رات کا بڑا
حصہ ہر گز بارش کہتے ہیں۔ أَقَمْتُ عِنْدَهُ

طَبَقًا مِنَ النَّهَارِ۔ دن کے اکثر حصہ
میں میں اس کے پاس رہا۔ حال۔ الدَّهْرُ

أَطْبَاقٌ۔ زمانہ کے مختلف حالات ہیں
جماعت۔ أَطْبَاقُ الرَّاسِ۔ سر

کی ہڈیاں۔ بَنَاتُ طَبَّقٍ۔ مصیبتیں
کچھوے، سانپ۔ أُمُّ طَبَّقٍ۔ مصیبت۔

الطَّبَقَةُ۔ جال۔ پھندا۔ دن کا ایک حصہ۔ ج۔
طَبَّقٌ وَطَبَّقٌ۔

الطَّبَقَةُ۔ مرتبہ، حال۔ إِنَّ كُتِبَتْ
إِلَى طَبَقَةٍ۔ اس کے خطوط میرے پاس

پہے در پہ آئے۔ ج۔ طَبَقَاتٌ۔
الطَّبَنُ۔ بند۔

الطَّبِيقُ۔ رات کی ایک گھڑی۔ ج۔ طَبَّقٌ۔
(ر۔) وَالطَّبَاقُ۔ مطابق۔ هَذَا طَبَقَةُ

وَطَبَقَةٌ وَطَبَاقَةٌ وَطَبِيقَةٌ۔ وہ
اس کے مطابق ہے۔ وہ اس کے مشابہ ہے

طَبَاقُ الْأَرْضِ۔ زمین کی سطح۔
الطَّبَاقُ وَالطَّبَاقُ۔ کڑا ہی، آدھی بکری۔

ج۔ طَوَابِقُ۔ وَطَوَابِقُ۔
الطَّابِقُ وَالطَّابِقُ وَالطَّابِقُ بَشِيشَةً

بُڑی اور پختہ اینٹ۔
الْمُطَبَّقُ۔ زمین کے نیچے کا قیہ رخانہ۔

الْجُنُونُ الْمُطَبَّقُ۔ لگا ہوا جنون۔
سَنَةُ مُطَبَّقَةٍ۔ سخت سال۔

الْمُطَبَّقَاتُ۔ مصیبتیں۔ حُرُوفُ
مُطَبَّقَةٍ۔ حروف ص ص ض ط ظ۔

الْمُطَبَّقُ۔ صاب الرائے۔ سَحَابَةٌ
مُطَبَّقَةٌ۔ ہمہ گیر بارش برسانے والا بادل۔

طَبَلٌ رَنٌ، طَبَلًا وَطَبَلٌ۔ ڈھول بجانا۔
طَبَلٌ فِي الْمَشْيِ۔ چلنے میں ٹھکانا۔

الطَّبَلُ۔ ڈھول۔ ج۔ طَبُولٌ وَآطَبَالُ
الطَّبَالُ۔ ڈھول بجانے والا۔ ڈھول

والا۔ الطَّبَالَةُ۔ ڈھول بجانے کا
پیشہ۔

الطَّبَلَةُ۔ ڈھولکی۔ الطَّبَلِيَّةُ۔ ٹیکس
کے روپے، خراج۔ ج۔ طَبَلِيَّاتٌ۔

طَبَلَنَ رَنٌ، طَبَلْنَا۔ انار۔ آگ کو دوا دینا
تاکہ بجھ نہ جائے۔

طَبَلَنَ (ض) طَبَلْنَا وَطَبَلَنَ (دس) طَبَلَانَتًا وَ

طَبَابِيَّةٌ وَطَبُوءَةٌ - الشئ د
للشئ - سمجھ دار ہونا۔ صفت (طِبْنٌ
و طَابِنٌ)
طَابَتُهُ - موافق ہونا۔ گڑھا گھرا کرنا۔
اَطْبَانٌ اَطْبَانًا - بالمكان - مکان
میں اطمینان پانا۔
الطَبْنُ وَالطَبْنُ - بڑی جماعت۔ اِئْتِ
الطَبْنُ هُوَ - وہ کون آدمی ہے؟
الطَبْنُ - بانسری۔ ستار۔ سارنگی۔
الطَبْنُ - گھر ہوا کالیا ہوا کوڑا کرٹ۔
الطَبْنُ وَالطَبْنُ وَالطَبْنُ وَالطَبْنُ -
مردار جو درندوں یا گدھوں کے شکار
کرنے کے کام میں لایا جائے۔ ج۔
طَبْنٌ -
اَلطَّبْنَةُ - زیر کی ہوشیاری کا رگری۔
ج۔ طَبْنٌ -
السُّطْبَةُ - ظہور کی آواز، ایک کیل۔ ج۔
طَبْنٌ - الطابون - گڑھا جس میں
آگ محفوظ رکھی جاتی ہے۔
الطَّبْنَةُ - طنجہ۔ ج۔ طَبْنَجَاتٌ -
طَبَاهٌ - يَطْبُوهُ - طَبُوًا اَطْبَاهُ وَاِطْبَاءٌ
پکارنا۔ بلانا۔
طَبَاهٌ يَطْبِيهِ طَبِيًّا - کھینچنا۔ کُغْنَهُ
باز رکھنا۔ کُ اَلِيَهُ - بلانا۔
طَبِيَّتٌ تَطْبِي طَبِيٌّ - الناذلہ - ڈھیلے
تھنوں والی ہونا۔
اَطْبَاهُ اَطْبَاءٌ - بلانا۔
الطَّبِي وَالطَّبِي - ج۔ اَطْبَاءٌ - دندے یا
سُوم دار یا کھوار جانور کا سرپ تمان۔
الطَّبَوَاءُ الطَّبِيَّةُ - ڈھیلے تھنوں والی
اونٹنی۔
طُتْ دس طُتًا - الشئ - پاؤں یا ہاتھ سے
مار کر جگہ سے ہٹانا۔
الطُتْ - مہم۔ بچوں کا ایک کیل جس میں گول
کڑی کو پھینکتے ہیں۔

طُتُورُنْ، طُتُرًا وَطُتُورًا وَطُتُرًا -
الطَّبْنُ - دودھ کا بالائی والا ہونا۔
صفت (طَابِنٌ)
الطُّشْرَةُ - کچڑ۔ کائی۔ بالائی، غلیظ پانی۔
وسعت، عیش، بھیرک ادن۔
اَطُشُرَ - الشئ - زیادہ کرنا۔
طُجَنَ دِنَ اَطُجَنًا وَطُجَنَ - الشئ -
بھوننا۔
الطَّاجِنُ وَالطَّبِجَنُ - کڑا ہی۔ ج۔
طَيَّاجِنٌ وَطَوَّاجِنٌ - دخیل کلمہ ہے۔
المُطَجِّنُ - مفعول۔ بھنا ہوا۔
طَحَنَهُ دِنَ طَحًا - پھیلا نا۔ آٹھنا۔ گرانہ۔
پھینکنا۔ اَلطَّحَنَ - پھینکا۔
الطَّحَانُ - پھیل ہوئی زمین۔
طَحَرْتُ دِنَ طَحْرًا - العین قَدْ اَهَا
خس و خاک کو پھینکا نکال دینا۔ صفت
(طُحُورَةٌ) الریج السحاب - ہوا کا
بادل کو اڑا لے جانا۔
تَحَرَّضَ دِنَ طَحْرًا وَطَحْرًا وَطَحْرًا -
ٹھنڈا سانس بھنا۔ آہ نکالنا۔
الطَّحْرُ وَالطَّحْرُ - پتے، متفرق۔ بادل
کے ٹکڑے۔
الطَّحْرَةُ وَالطَّحْرِيَّةُ - بادل کا ٹکڑا۔
الطَّحُورُ - جلد باز۔ د۔ وَالْمَطْحُورُ مِنَ
الْقِيَمِ تیر دور پھینکنے والی کان۔
الطَّحُورُ دِنَ - بادل کا ٹکڑا۔ ج۔
طَحَارِيرٌ -
طَحْرَبَ - دوڑ کے بھاگ نکلتا۔ القربة
مشک بھنا۔
الطَّحْرِبُ - کوڑا کرٹ۔ الطَّحْرِبَةُ -
بادل یا کڑے کا ٹکڑا۔
طَحْطَحَةً - توڑنا۔ طَحْطَحَ القومُ و
بالقوم - قوم کو متفرق کرنا۔ ہلاک کرنا۔
- مَالَةٌ - بکھڑنا۔ الرجل - ہلکی
ہنسی ہنسانا۔

طَحْلَحَهُ دِنَ طَحْلَحًا - تلی پر مارنا۔
الاناء - برتن بھنا۔
طَحْلَ دِنَ طَحْلًا وَطَحْلًا - تلی کا بڑھ جانا۔
- الساء - خراب ہونا۔
طَحْلَ طَحْلًا - تلی ک شکایت ہونا۔ صفت
(مُطْحُولٌ)
الطَّحَالُ - تلی۔ ج۔ اَطْحَلَهُ وَطَحْلًا و
طَحْلَاتٌ -
الطَّحَالُ - تلی کی بیماری۔ الطَّحْلَةُ -
خاکستری رنگ۔
الطَّحْلُ - خاکستری رنگ کا۔ راکھ جیسے رنگ
کا۔ مؤنث (طَحْلَاءٌ) ج۔ طَحْلٌ
الطَّحِلُ - بڑی تلی والا۔ غغبناک، بھرا ہوا
کیچڑ والا پانی۔
الطَّحْلُ - باریک نٹے۔
طَحْلَبَ - الساء - پانی کا کافی والا ہونا۔
صفت (مُطَحْلَبٌ وَمُطَحْلِبٌ)
الارضُ - زمین کا سرسبز ہونا۔ الرجلُ
قتل کرنا۔ الطَّحْلِبُ وَالطَّحْلِبُ -
کائی۔
طَحَدَ دِنَ طَحْدَةً - علیہ - کودنا۔ حملہ
کرنا (کلام عام میں سے ہے)۔
الطَّحْدَةُ وَالطَّحْدَةُ وَالطَّحْدَةُ - مِنَ
النَّاسِ - لوگوں کی جماعت۔ مِنَ
السَّيْلِ - سیلاب کا زور۔ مِنَ
اللَّيْلِ - رات کی بہت تاریکی۔
الطَّحْدَةُ - بڑا جنگ جو آدمی، بہت اونٹ۔
الطَّحُومُ - تیز بننے والا دریا۔
المُطْحُومُ - بھرا ہوا۔
طَحَنَ دِنَ طَحْنًا وَطَحْنًا - البئر گیوں
پسنا۔ المنيَّةُ القومُ - ہلاک کرنا۔
طَحَنَتِ الْأَفْعَى سَانِ كَانْدَلِي مَارِنَا
صفت (مُطْحَانٌ) تَطْحَنَ - پسنا۔
الطَّحْنُ وَالطَّحْنُ - آٹا۔ الطَّاحِنَةُ -
مؤنث الطَّاحِنُ - داڑھ۔ ج۔



طَوَّاجِحُنَّ

الطَّحَّانُ - پینے والا۔ آٹا پیسنے والا۔

الطَّائِنَةُ - آٹا پیسنے کا پیشہ۔

الطَّاحُونُ وَالطَّاحُونَةُ - چکی۔ پینے کا مکان۔

الطَّوْنُ وَالطَّائِنَةُ - جنگ۔ بڑا لشکر۔ بہت اونٹ۔

الْمُطَنِّحَةُ - چکی۔ جہ۔ مَطَّاحِنُ -

الْمُطَنِّحَةُ - پینے کا مکان۔ جہ۔ مَطَّاحِنُ

طَحَا يَطْحُو طَحْوًا - دور ہونا۔ ہلاک ہونا۔

الشيء - دفع کرنا۔ پالنگی بھینکنا

- القوم - ایک دوسرے کو بٹانا۔

طَحَا يَطْحُو طَحْوًا - الشيء - پھیلانا۔ لمبا

کرنا۔ الشيء - پھیلنا۔ دراز ہونا۔

- الْقَمَرُ - چاند کا روشن ہونا۔

الرجل - ملک میں سفر کرنا۔

الطَّحَا - چڑی زمین۔

الطَّاحِي - فا۔ بلند پھینے والا۔ بڑا گروہ۔

مَظْلَّةٌ طَاحِيَةٌ وَمَظْخُوَةٌ وَمَظْطُوَةٌ

مَظْطُوَةٌ - بڑی چھتری۔ شامیانہ۔

طَحَى يَطْحِي طَحْيًا - الشيء - پھیلانا۔

طَحَى يَطْحِي طَحْيًا - لَبِنًا -

الطَّيْحَةُ - بادل کا ٹکڑا۔

طَحَرْنَ طَحْيًا - بھینکنا۔ دور کرنا۔ طَحُوخًا

ترش رواور بدخلق ہونا۔

الْمُطَحَّةُ - بچوں کے کھیلنے کی لکڑی۔

طَحِشْتُ دَسَ طَحْشًا وَطَحْشًا - العَيْنُ

آنکھ کا بے نور ہونا۔

طَحْطَحَ - الشيء - برابر کرنا۔ ایک دوسرے

سے ملانا۔ الْإَيْلُ - رات کو تاریک

کرنا۔

تَطَحَّطَ - رات کا تاریک ہونا۔ بادل کا

بام بل کر برابر ہونا۔

الطَّحْطَاحُ - باہم ملا ہوا بادل۔ بدخلق۔

الطَّحَا طَحَ - تاریکی۔

طَحَمَ دَفَ طَحْمًا وَطَحْمًا - طَحَامَةٌ -

تکڑ کرنا۔

الطَّحْمُ - گوشت کا سوکھ کر

سیاہی مائل ہو جانا۔

الطَّحْمَةُ - بکریوں کا گلہ۔

الطَّحْمَةُ - ناک کی چوٹی کی سیاہی۔

الْأَطْحَمُ - جانور یا آدمی کے ناک کا اگلا حصہ۔

- دَا الطَّحْمُ - سوکھا گوشت۔

طَحَا يَطْحُو طَحْوًا وَطَحْوًا - اللیل -

رات کا تاریک ہونا۔

الطَّحَاءُ - بلند بادل۔ دل کی گھبراہٹ۔

الطَّحِيَّةُ وَالطَّحِيَّةُ - تاریکی۔ بادل کا ٹکڑا۔

الطَّحِيَّةُ - بیوقوف۔ جہ۔ طَحُونُ -

- الطَّحْوَةُ وَالطَّحْيَاءُ - اندھیری

رات۔

الطَّاحِيَّةُ - سخت اندھیرا۔

طَحَرْنَ طَحْرًا - الْمَائِيَّةُ - جانوروں

کو زور سے ہانکنا۔ - الْإِبِلُ - اونٹوں

کو اطراف سے جمع کرنا۔ الشيء - کاٹنا

- الْغُوبُ - کپڑا پھاڑنا۔ الْإِبِلُ

الْجِبَالُ - اونٹوں کا پہاڑ کو طے

کرنا۔ طَحَرْنَا الْقَوْمَ - قوم کے پاس

سے گزرنا۔ الْيَسِيْقُ - چھری تیز کرنا۔

- الْإِسْيَانُ - عمارت کی مرمت کرنا۔

الْحَوْضُ - حوض کو بیٹنا۔ - الْمَالُ

مال چھیننا۔

طَحَرْنَ مِنْ طَحْرًا وَطَحْرًا - الشَّارِبُ

او النَّبَاتُ - مونچھ یا نباتات کا اگنا۔

طَحَرْتُ الْجُودُ - ستاروں کا روشن

ہونا۔ يَدُكَ - زخم کی وجہ سے گر جانا۔

- الرَّجُلُ مِنَ السَّطْحِ - کسی کا چھت

سے گر جانا۔

أَطْرَحَ - گرنا۔ کاٹنا۔ دھتکارنا۔ أَطْرَحَ

عَلَى الْأَمْرِ - کسی کو اسانا۔ ابھارنا۔

طَوَّرَتِ الْجَارِيَةُ - لڑکی کا اپنی پیشانی

کے بال سنوارنا۔

الطَّرُ - طرف، کنارہ۔ جہ۔ أَطْرَارٌ - جَاؤا

طَرًا - وہ سب کے سب آئے۔

الطَّرَةُ - پہلو۔

الطَّرَةُ - پیشانی، پیشانی کے بال۔ کپڑے کا

نقش و نگار۔ ہر شے کا کنارہ اور طرف۔

کتاب کا حاشیہ۔ نہر یا وادی کا کنارہ۔

بادل کا لمبا ٹکڑا۔ جہ۔ طَرَاتٌ وَطَرَاتٌ

و طَرَاتٌ وَأَطْرَأَتْ - طغرا کے معنی میں

عام لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن صحیح

لفظ طغرا ہے۔ غُلَامٌ طَارٌ او

طَوِيْرٌ - لڑکے کی منجھیں نکل آنا۔ سِنَانٌ

طَوِيْرٌ - تیز نیزہ۔

الْمُطَرُّ - فا۔ غَضَبٌ مُطَرٌّ - بے موقعہ

کا غصہ۔

الطَّرِيَّتَانِ - طباق۔ صینی۔

الْمُطَرَّةُ - عادت۔

طَحَرْنَا دَفَ طَحْرًا وَطَحْرًا - عَلَيْهِمْ

دور سے اچانک آجانا۔ طَحَرْنَا عَلَى

هَمٍّ لَا أُطِيقُهُ - مجھ پر ایسا غم آیا جس

کے برواشت کی میں طاقت نہیں رکھتا۔

طَحَرْنَا دَفَ طَحْرًا وَطَحْرًا - النَّبَاتُ

وَنَحْوَهُ - تروتازہ ہونا۔ سفت (طَحْرِيٌّ)

- أَطْرَأَكَ - بہت تعریف کرنا۔

الطَّارِيءُ - فا۔ اجنبی، مسافر، نقلی۔ جہ۔

طَوَّاعٌ وَطَوَّاعٌ -

الطَّارِيَّةُ - مؤنث الطَّارِيءُ - مصیبت۔

جہ۔ طَوَّارِيٌّ وَطَوَّارِيٌّ - عام طور پر

طَوَّارِيَّةٌ - ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو

کسی شہر کے باشندے نہ ہوں، لیکن وہاں

سکونت کریں۔

الطُّوَانُ - راستہ، ناپسندیدہ بات۔ غیر معلوم

بات۔ حَتَامٌ طَوَّارِيٌّ - وہ کہو ترجمہ

کسی نامعلوم جگہ سے آیا ہو۔ کَلَامٌ

طَوَّارِيٌّ - تہذیب سے گرا ہوا کلام۔

طَرَاةُ السَّيْلِ سبیل کا زور۔
 طَرِبَ دس، طَرِبْنَا خوشی یا غم سے بھوننا۔
 صفت (طَرِبَ)
 طَرِبَ گانا۔ فی صوتہ خوش الحانی سے
 آواز بلند کرنا۔ سُر نہ کرنا۔ عَنِ الطَّرِيبِ
 راستہ سے ہٹنا۔
 طَرِبَهُ وَطَرِبَهُ وَطَرِبَهُ خوش کرنا
 خوشی پر برا بھلا کہنا۔
 اسْتَطَرِبَ بہت خوش ہونا۔ ضَلَاكَ
 خوش ہونے کو کہنا۔ الِیْلِ صدى سے
 اونٹ کو اکسانا۔
 الطَّرِيبُ وَالْمَطَرِيبُ واد طریبہ
 بہت خوش و خرم۔
 الْمَطَرِيبُ وَالْمَطَرِيبَةُ تنگ راستہ۔
 ج۔ مَطَارِبُ۔ الْمَطَارِبُ متفرق
 راستے۔
 الطَّرِيبَالُ ہر بلند عمارت۔ دور سے سننے والے
 والا جھنڈا۔ پہاڑ کی بڑی چٹان۔ ج۔
 طَرَابِیْنُ۔ طَرَابِیْنُ الشَّامِ شام
 کے کربے۔
 الطَّرِيبُ گاہے کی مشین۔ س۔ طَرَابِیْنُ
 طَرَحَ دس، طَرَحْنَا۔ الشَّيْءُ بالشيء
 پھینکنا۔ عَنَهُ ڈالنا۔ دور کرنا۔
 طَرَحَتِ الْأُنْثَى عورت کا حمل گرنا۔
 طَرَحَ الْحَاسِبُ حساب کرنے والے
 کا کسی عدد کو تفریق کرنا منفی کرنا۔ عَلِيهِ
 مَسْئَلَةٌ مسئلہ پیش کرنا۔
 طَرَحَ دس، طَرَحْنَا بدعت ہونا، خوش عیش
 ہونا۔ فراغ زندگی گزارنا۔
 طَرَحَ طَرَحَ کا بالغہ۔ طَرَحَ الْأُنْثَى
 عورت کا حمل گروانا۔ اِبْدَاءُ عمارت
 کو بہت بلند کرنا۔
 طَارَحَهُ مَطَارَحَةً الكلام اراشعہ
 او الغناء۔ کلام یا شعر یا گانے میں
 مقابلہ کرنا۔

اَقْرَحَهُ پھینک دینا۔ دور کر دینا۔
 تَطَارَحَ۔ الْقَوْمُ الكلام ادا الغناء
 کلام یا گانے میں باہم مقابلہ کرنا۔
 الطَّرَحُ ڈالنا، پھینکنا ہوا۔ اوصور اگر ہوا پھینک
 الطَّرَحُ س۔ ر۔ وَالطَّرَحُ وَالطَّرَاحُ
 دور کا مکان۔ الطَّرَحُ لمبی
 شاخوں کا درخت خرما ج۔ طَرَحُ
 الطَّرَحُ ایک بار پھینکنا۔ ایک سبز رنگ
 کی چادر۔ عوام کے نزدیک اور معنی۔
 الطَّرِيبُ پھینکا ہوا۔ ج۔ طَرَحِي
 الطَّرَحُ ڈالنا ہوا۔ پھینکا ہوا۔
 الطَّرَحُ پھینکنا پیش کیا ہوا مسئلہ۔ الْمَطَرَحُ
 پھینکنے کی تگ۔ پھینکانے کی جگہ۔ ج۔
 مَطَارِحُ۔ طَرَحَ مَطَرَحَةً تیز نظر
 رُحْمَ مَطَرَحَ لمبیزہ۔
 الطَّرِيبُ وَالطَّرِيبَانِ رئیس۔ ج۔
 طَرَاخِنَةُ
 الطَّرِيبُ ناقہ قرۃ۔ (وخیل)
 الطَّرِيبُ ایک ناقہ جو تھوڑی بھلی
 الطَّرِيبُ۔ المایل۔ رات کا تاریک ہونا۔
 الرَجُلُ کمزور بشر ہونا۔
 طَرَدَهُ دس، طَرَدْنَا۔ طَرَدْنَا دور کرنا۔
 ایک طرف کرنا۔ دھتکارنا۔ هُ مِنْ بِلَادِهِ
 جلاوطن کرنا۔ طَرَدَ الْاِبِلَ اونٹوں
 کو اطراف سے جمع کر کے ٹانگنا۔
 طَرَدَ دس، طَرَدْنَا کھوج لگانا، شکار
 کا بیچھا کرنا۔
 طَرَدَ۔ السَّوْطُ چابک اٹھانا۔ طَرَدَهُ
 عَنِ الْبَلَدِ جلاوطن کرنا۔
 طَارَدَ طَرَادًا وَمَطَارَدَةً۔ الْقُرْآنُ
 ہم عمروں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔
 اَطْرَدَهُ جلاوطن کرنے کا حکم دینا۔ جلاوطن کرنا۔
 تَطَارَدَ۔ الْقَوْمُ ایک دوسرے پر حملہ
 کرنا۔ اَطْرَدَ۔ جلاوطن ہونا۔
 اَطْرَدَ۔ دور ہونا۔ الامر کام کا درست

طرز پر چلنا۔ احکام کا باہم مائل ہونا۔
 الْأَهْلُ نروں کا جاری ہونا۔ اَطْرَدَ
 الْقَوْمُ إِلَى السَّيْرِ۔ قوم نے سفر میں
 ایک دوسرے کی پیروی کی۔
 اسْتَطْرَدَ۔ لہ۔ بھاگنے کا بہانہ کر کے
 حملہ کرنا۔ کلام میں خارج از بحث مضمون
 کی طرف جانا۔ اسْتَطْرَدَ الْمِيلَ
 الامر۔ پہنچنا۔
 السَّطْرُ کھجور کے پودے۔ ج۔ طَرَدَ
 الطَّرُ۔ وہ پانی جس میں جانور کھستے ہوں۔
 الطَّرَادُ۔ طَارَدَ کا بالغہ جنگی کشتی۔ کشادہ
 مکان۔ لمبادن۔
 الطَّرِيدُ۔ دھتکارا ہوا۔ بھاگنے والا۔ کسی کے
 بعد پیدا ہونے والا۔ کسی سے پہلے پیدا ہونے
 والا۔ مِنَ الْأَيَّامِ۔ لمبادن۔
 الطَّرِيدَانِ۔ رات و دن۔
 الطَّرِيدَةُ کھوج لگایا ہوا۔ بھگایا ہوا شکار۔
 کپڑے کا مستطیل ٹکڑا۔ چرائے ہوئے
 اونٹ۔ تنور و غیرہ صاف کرنے کا
 بھیگا ہوا چھتڑا۔ ج۔ طَرَايِدُ
 الطَّرَادُ س۔ چھوٹا نیزہ۔ فَلَانٌ بِمَشْيِ
 مَشْيًا طَرَادًا غلام سیدھی چال چلتا ہے۔
 الْمَطَرَدُ چھوٹا نیزہ۔ ج۔ مَطَارِدُ۔ یوم
 مَطَرَدُ۔ لمبادن۔ حُكْمُ مَطَرَدُ۔
 عام حکم۔ الْقَاعِدَةُ الْمَطَرَدَةُ
 عام قاعدہ۔
 الْمَطَرَدَةُ وَالْمَطَرَدَةُ درمیان سڑک
 شاہراہ۔
 طَرَسَ دس، طَرَسْنَا بدعت ہونے کے بعد
 خوش خلق ہونا۔ فِي الْمَجْلِسِ خوشنا
 لباس پہننا۔
 طَرَسَ دس، طَرَسْنَا گھونسا مار کے ہٹانا۔
 طَرَسَ الثَّوْبُ کپڑے پر نقش و نگار کرنا
 بیل بوٹے ڈالنا۔
 تَطَرَسَ الثَّوْبُ کپڑے کا بیل بوٹے والا

ہونا۔ فی لُبْسِہ۔ فارہ لباس پہننا۔
 الطَّوْتُ۔ بیئت، طریقہ، ترتیب۔
 الطَّوَارُ۔ کپڑے کا نقش و نگار۔ وہ جگہ
 جہاں اچھے کپڑے بئے جائیں۔ طریقہ۔
 هَذَا عَلَى طَوَارِ ذَلِك۔ یہ اس
 کے طریقہ پر ہے۔
 الطَّوَارِذَةُ۔ کپڑے پر نقش و نگار کرنے کا
 پیشہ۔
 طَوَسَ (ض) طَوَسًا۔ الشَّيْءَ۔ چیز کو مٹانا۔
 - المِکْتَابِ۔ اچھی طرح مٹانا۔
 طَوَسَ۔ المِکْتَابِ۔ اچھی طرح مٹانا۔
 البَابِ۔ دروازہ کالا کرنا۔ المِکْتَابِ
 کاتب کا لکھے ہوئے پر لکھنا۔ طَوَسَهُ
 بگاڑنا۔ فاسد کرنا۔
 تَطَوَّسَ۔ فی المَآکِلِ۔ عمدہ عمدہ
 کھانے کھانا۔ عَنِ الشَّيْءِ۔ پرہیز کرنا
 حقیقہ بنانا۔
 الطَّوَسُ۔ مطلق صحیفہ جس کو مٹا کر پھر لکھا
 جائے۔ ج۔ اَطَوَسَ وَطَوَّسَ۔
 طَوَّشَ (س) طَوَّشًا۔ بہرا ہونا۔ صفت۔
 اَطَوَّشَ، مَوْنَتِ دَطَوَّشًا، ج
 طَوَّشَ۔
 تَطَارَشَ۔ بکافت بہرا بننا۔ الطَّوَّشَةُ
 بہرا پن۔
 الاَطَوَّشُ وَالْاَطَوَّشُ۔ بہرا۔
 طَوَّشَمَ۔ اللیل۔ رات کا تاریک ہونا۔
 طَرَطَ (س) طَرَطًا۔ بے وقوف ہونا۔
 صفت دَطَرَطَ۔ ابرو اور پلکوں پر تھوڑے
 بال والا ہونا۔ صفت۔ (طَرَطَ)
 الْحَاجِبَيْنِ وَطَوَّطَهُمَا وَ
 اَطَوَّطَهُمَا وَ اَطَوَّطَ مَوْنَتِ طَرَطًا
 - اِمْرَاةٌ طَوَّطَاءُ الْعَيْنَيْنِ۔ وہ
 عورت جس کی پلکوں پر بال کم ہوں۔
 طَرَطَ۔ فخر کرنا۔ ڈیگ۔ ماننا۔ شفی
 بگاڑنا۔

الطَّرْطُورُ۔ پتلا لمبا آدمی۔ لمبی نوکدار ٹوپی۔
 شام کی عورتوں کا ایک زیور۔ اور کبھی
 طَنْطُوسُ بھی کہتے ہیں۔
 طَرَفَهُ (ض) طَرَفًا۔ پھیسڑ مارنا۔
 طَرَفَهُ عِنْدَهُ۔ واپس کرنا۔ بٹانا۔
 طَرَفَ بَصَرَهُ۔ او طَرَفَ بَعِيدَهُ۔
 آنکھ جھپکانا۔ عَيْنُهُ۔ آنکھ میں کوئی
 چیز لگانا جس سے آنسو ہیں اور آنکھ
 بند ہو جائے۔ صفت (مَطَرُودَةٌ)
 طَرَفَتْ عَيْنُهُ۔ نظر پھراننا۔
 فَلَانٌ۔ دیکھنا۔ مَا بَقِيَتْ
 مِنْهُمْ عَيْنٌ تَطَرَفَ۔ ان میں سے
 کوئی باقی نہیں رہا۔
 طَرَفَ ذَا طَرَاةً۔ نیامال ہونا۔
 طَرَفَهُ۔ کنارہ پر کر دینا، آنکھ میں کچھ کرنا۔
 طَرَفَتِ الْخَيْلُ۔ سب سے اگلے
 گھوڑوں کو پیچھے بٹا دینا۔ بَنَانُهُ
 ہندی سے پوروں کو رگٹنا۔ الشَّيْءَ
 پسند کرنا۔
 اَطَرَفَ۔ نئی عمدہ چیز لانا۔ پلکوں کو بند کرنا۔
 كَذَا بَكْدًا۔ لاحق کرنا۔ كُ الشَّيْءِ
 تحفہ دینا۔
 تَطَرَّفَ۔ کنارہ پر آنا۔ الشَّيْءَ۔ کنارہ
 پر ہونا۔ اعتدال سے گزر جانا۔ الشَّمْسُ
 سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الشَّيْءَ۔
 اطراف سے لینا، کناروں سے پسند
 کرنا۔ عَلَيْهِمْ غَارَتِ وَالنَّارُ۔
 اَطَرَفَ۔ الشَّيْءَ۔ نئی خریدنا۔
 اِسْتَطَرَفَهُ۔ نیا شمار کرنا۔ نیا پانا۔ فائدہ
 لینا۔ پسند کرنا۔
 الطَّرَفُ۔ صم۔ آنکھ، چیز کا کنارہ۔ ہر شے
 کی آخری حد۔ ج۔ اَطَرَفَ۔
 الطَّرَفُ۔ شریف آدمی۔ نَظَرَ بِطَرَفِ
 حَنِي۔ ٹوٹنا، جیا کی وجہ سے نیم ہونے
 آنکھوں سے دیکھنا۔

الطَّرَفُ۔ نجیب الطرفین۔ ج۔ اَطَرَفَ۔
 اصل گھوڑا وغیرہ۔ ج۔ طَرَفَ۔ و
 اَطَرَفَ۔ مَوْنَتِ طَرَفَهُ، نیامال۔
 - مِنَ النَّبَاتِ۔ جو ابھی اپنے غلاف
 شکوفہ میں ہی ہو۔ مِنَ النَّاسِ۔ وہ
 شخص جو مال طبع کے باعث کسی کی
 صحبت پر برقرار نہ رہے۔ ایسا ندیدہ
 کہ جس چیز کو دیکھے خواہش کرے، کہ
 اس کے پاس ہو۔ رَجُلٌ طَرَفٌ
 فی نَسَبِہ۔ نئے شرف والا۔
 الطَّرَفُ۔ ہر شے کی حد، گوشہ، چیز کا ٹکڑا۔
 شریف آدمی۔ ج۔ اَطَرَفَ۔ وجہ
 اَطَارِيفُ۔ اَطَرَفُ الْبَدَنِ۔
 جسم کے اطراف۔ دونوں ہاتھ، دونوں
 پاؤں اور سر۔ اَطَرَفُ النَّاسِ۔
 ادنیٰ لوگ۔ اَشْرَافُ۔ خاندان
 شرفدار۔ اَطَرَفُ الرَّجُلِ۔ انسان
 کے قریبی رشتہ دار۔
 الطَّرِفُ۔ غیر مستقل کسی ایک کی صحبت پر
 قائم نہ رہنے والا۔ نئی شرافت والا۔
 الطَّرَفَةُ۔ خون کا نقطہ جو آنکھ میں پیدا
 ہو جاتا ہے۔
 الطَّرْفَةُ۔ بطیفہ، عمدہ نئی چیز۔ ج۔ طَرَفَ
 الطَّرَفَاءُ۔ ایک قسم کا درخت۔
 الطَّارِفُ۔ فاء۔ نیا حاصل کردہ مال۔
 الطَّارِفَةُ۔ مَوْنَتِ الطَّارِفِ۔ حِجَاءُ
 بَطَارِفِ عَيْنِ۔ مال کثیر لایا۔ ج
 طَوَارِفُ۔ الطَّوَارِفُ۔ آنکھیں
 خیمہ کے پہلو۔
 الطَّرِيفُ۔ ناوریوہ وغیرہ۔ مِنَ الْمَالِ
 نیا حاصل کیا ہوا مال۔ نئے شرف والا۔
 ج۔ طَرَفَ وَطَرَفَ۔
 الطَّرِيفَةُ۔ مَوْنَتِ الطَّرِيفِ۔ ج۔ طَرِيفُ
 نئی عمدہ چیز۔ لطیفہ۔
 الاَطَرُودَةُ۔ لطیفہ۔

پہننا۔ الظلامُ والنجاسُ۔ تاریکی
یا بادل کا یہ دریے آنا۔

الطَّرِيقَةُ عَادَتُ، حَالَتُ، مَذْهَبُ، دَهَارِي

الطَّامِلَةُ۔ و انت کے اوپر کی زردی۔ دانتوں کے درمیان پھنسا ہوا کھانا۔ منہ پر سوکھا

ہوا تھوک۔

الطُّرْمُوتُ: بھوبھل کی پکی ہوئی روٹی۔

طُورَمَحَ الْبِنَاءُ: عمارت لمبی بنانا۔

الطُّرْمَا حُ وَالطُّرْمَا حُ وَالطُّرْمُوتُ:

لمبا۔ الطُّرْمَا حُ: مشہور، عالی نسب

پیش بین۔

طُورَمَذَّ: جھوٹا فخر کرنا۔ لاف مارنا۔ صفت۔

رَطُومًا ذُو طُورَمَذَّ:

طُورَمَسَّ: ڈر سے چپ ہونا۔ مکروہ جاننا، بھاگنا

۔ الْوُجُہُ: ترش رو ہونا۔

الْكَاتِبُ الْيَكْتَابَةُ: تحریر مٹانا۔

رَوِطُورَمَسَّ: اللیل۔ رات کا

تاریک ہونا۔

الطُّورَمَاسُ وَالطُّورَمِاسُ وَالطُّورَمِاسَاءُ:

سخت تاریکی۔

الطُّورَمُوسُ وَالطُّورَمُوسَةُ: بھوبھل کی

پکی ہوئی روٹی۔

طُورَدَیْطُورُ وَطُورِیْ یَطُورِیْ طُورَادَةً

وَطُورَاءَةً وَطُورَاءً وَطُورَاءَةً:

الْغُصْنُ أَوِ اللَّحْمُ: شاخ اور

گوشت کا تروتازہ و نرم ہونا۔ صفت

(طُورِیْ)

طُورَا یَطُورُ وَطُورًا: عَلَیْہِمْ دُور

سے آنا۔

طُورِیْ: الشَّیْءُ تازہ کرنا۔ الطَّیْبُ

خوشبوؤں کو مخلوط کرنا۔ الطَّعَامُ

کھانے میں مسالہ ملانا۔

أَطُورِیْ إِنْطُورًا: فَلَانَا: کسی کی بہت

تعریف کرنا۔

إِطُورِیْ: بدبھنی ہونا۔ پیٹ پھولنا۔

الطُّورَا: زمین میں وہ چیز جو غیر جنس زمین

سے ہو۔ لاتعداد مخلوق۔

الطُّورِیْ: تازہ۔ زم۔ الْإِطْرِیَّةُ:

سوتیاں۔

الْأُطُرُونَ: مِنَ الشَّبَابِ: آغاز

ہوانی، ابتداء شباب۔

طُورِیْ رَس، طُورِیْ: الیاء۔ آنا۔ مترجم

ہونا۔

طُورَدَ دُن، طُورَدَا: بھکا مار کر بھٹانا۔

طُورَدَ دُن، طُورَدَا: جھگڑا کر چپ کر دینا۔

۔ هُ فِي الْمَاءِ: پانی میں ڈبونا۔

طُورَسَّ: الْقَدَمُ: دوتک چلا جانا۔ مَا

أَدْرِیْ آئِنَ طُورَسَّ: میں نہیں جانتا

وہ کہاں گیا۔

طُورَسَّ: جانا۔ فِي الْبِلَادِ:

الطُّورَسَّ: مَم۔ ج۔ أَطْسَاسُ وَطُسُوسُ

وَطُسِیْسُ: وَالطُّشَّةُ أَوِ الطُّشَّةُ

ج۔ طُشَاتُ وَطُشَاتُ وَطُشَسُ

وَطُشَسُ: ہاتھ دھونے کی جگہ۔

سلاپیچی۔

الطُّشَاسُ: سلاپیچی بنانے والا یا بیچنے والا۔

الطُّشَاسَةُ: سلاپیچی بنانے کا پیشہ۔

طُشَا رَف، طُشَا وَطُشِیْ رَس، طُشَا:

تخم ہونا۔ بدبھنی ہونا۔ صفت (طُشِیْ)

وَطُشِیْ: طُشَا: مِنْہُ: ششمانا۔

أَطْسَا هُ: بدبھنی کرنا۔ الطُّشَا: تخم

بدبھنی۔

الطُّشُتُ: ہاتھ دھونے کا تانبہ کا برتن۔

ج۔ طُشُوتُ:

طُشَع رَف، طُشَعَا: فِي الْبِلَادِ:

ملک میں جانا۔

طُشِعَ رَس، طُشَعَا: بے غیرت اور

مفلس ہونا۔ صفت (طُشِعَ وَطُشِیْعُ)

طُشَمَ دُن، طُشَمَا: الشَّیْءُ: مٹانا۔

طُشَمَ رَف، طُشُومًا: مٹنا۔

طُشِمَ رَس، طُشَمَا: تخم ہونا۔

الطُّشَمُ: مَم۔ تاریکی، غبار۔

طُشَمَ أَوِ الطُّشَامُ: مِنَ سَحَابٍ:

تھوڑے سے بادل۔

الطُّشَامُ وَالطُّشَامُ وَالطُّشَامُ: مِنَ

الْغُبَارِ: بہت خبار۔

طُشَّتْ دُن، طُشَّتْ: السَّمَاءُ:

آسمان سے پھوار برسنا۔

طُشَّتْ: الرَّجُلُ: زکام جیسی بیماری

والا ہونا۔

الطُّشَاشُ: نگاہ کی کمزوری۔ الطُّشِيشُ

وَالطُّشُ: پھوار۔

الطُّشَّةُ: زکام کی ایک بیماری۔

الطُّشَّةُ: چھوٹا بچہ۔

الطُّشَّتُ: طُشَّتُ:

طُعِمَ رَس، طُعِمَا وَطُعِمَا: الشَّیْءُ:

چکھنا۔ علیہ۔ طاقت پانا۔

طُعِمَ رَس، طُعِمَا وَطُعِمَا: الطَّعَامُ

کھانا۔ ر۔ طُعِمَا، الْغُصْنُ: ایک

درخت کی ٹہنی کا دوسرے درخت کی

کی ٹہنی سے الجھ جانا۔

طُعِمَ رَف، طُعِمَا: پیٹ بھر کے کھانا۔

سیر ہو کر کھانا۔

طُعِمَ: الْغُصْنُ: ایک درخت کی ٹہنی کا

دوسرے درخت کی ٹہنی میں پیوند لگانا۔

اطباء اور عام لوگوں کی اصطلاح میں

دبائی بیماریوں کی حفاظت کے لیے ٹیکہ

لگانے کے معنی میں آتا ہے۔ بڑی کا

گودے دار ہونا۔

أَطْعَمَ: الْغُصْنُ: پیوند لگانا۔ هُ:

کھانا۔ خوراک دینا۔ الشَّجَرُ: درخت

کا پھل دینا اور اس کے پھلوں کا پکنا۔

الشَّیْءُ: مزے دار ہونا یا مزے میں

تبدیل آنا۔

طَاعَمَ وَطُطَاعَمَ: الْحَمَامُ: کبوتر کا

اپنی چونچ مادہ کی چونچ میں ڈالنا۔

طَاعَمَهُ: ساتھ کھانا۔

تَطْعَمَ: الشَّیْءُ: چکھنا۔ طَاعَمَ:

مزے دار ہونا۔ پھل پکنا، عرب کہتے ہیں۔

”هُوَ لَا يَطْعَمُ“ وہ ادب پذیر اور



اصلاح پذیر نہیں۔

اِسْتَطْعَمَ چیز کا مزہ پانا۔ کسی سے

کھانا طلب کرنا۔ الطَّعَامُ کھانے کا
ذائقہ معلوم کرنے کے لیے اس کو چکھنا۔الطَّعْمُ مزہ۔ ج۔ طَعُومٌ۔ اختنائے
طعام۔ رَجُلٌ ذُو طَعْمٍ۔ عقل مند

وسمجھ دار آدمی

الطَّعْمُ کھانا۔ قدرت پرندے یا پھلی کو
شکار کرنے کے لیے ڈالنا ہوا دانہ یا پارہ۔الطَّعْمَةُ کھانے کا طریقہ، گذران کا ذریعہ
الطَّعْمَةُ خوراک، رزق، کھانےکی دعوت، کسب و کمائی کا ذریعہ۔ ج۔
طَعْمٌ۔الطَّعَامُ۔ مہم خوراک۔ ج۔ اَطْعَمَ۔ ج۔
اَطْعِمَاتٌ۔ گیہوں۔الطَّعْمُ وَالطَّاعِمُ۔ خوش خوراک۔
”اَنَا طَاعِمٌ عَنْ طَعَامِ مَكُمُ“ میںتمہارے کھانے سے بے پرواہ ہوں۔
الطَّعُومَةُ کھانے کے لیے روکی

ہوئی بکری۔

الطَّعَامِيُّ کھانا بیچنے والا۔ المَطْعَمُ
کھانے کی جگہ، خوراک۔ ج۔ مَطَاعِمٌالمَطْعَمُ بہت کھانے والا۔ مَوْنَتٌ
وَمَطْعَةٌ۔

المَطْعَامُ بڑا مہمان نواز۔

المَطْعَمُ مفع۔ کھانا دیا ہوا۔

المَطْعُومُ مفع۔ خوراک، پیوند، ٹیکہ۔

طَعَنَ رَفَن طَعْنًا۔ پالرمجہ۔ نیزہ مارنا
نیزہ چھبونا۔ فِي الْمَقَارِقِ۔ جانا۔فِي الدِّبْتِ۔ بوڑھا ہونا۔ الْعَرَسُ
فِي الْعَيْنِ۔ چلنے میں گھوڑے کالگام کھینچ کر نیزہ چلنا۔ رَطْعًا و
طَعْنًا تَا فِي الرَّجْلِ وَتَلْبِسُ۔کسی میں عیب نہ نکالنا۔ طعنہ مارنا۔
الدلیل۔ ساری رات چلنا۔طَعِنَ۔ الرجل۔ طاعون میں مبتلا ہونا۔
نیزہ لگنا۔تَطَاعَنَ۔ الْقَوْمُ تَطَاعَنُوا وَطَعَانًا
وَالطَّعْنُوا۔ ایک دوسرے کو نیزہمارنا۔ الطَّعْنَةُ۔ نیزے کی ضرب۔
نیزہ کی ضرب کا نشان۔ ج۔ طَعْنٌ و

طَعْنَاتٌ۔

الطَّاعُونُ۔ طاعون کی بیماری، پلگ۔ وبا
کی موت۔ ج۔ طَوَاعِيْنٌ۔الطَّعَانُ وَالْمِطْعَنُ وَالْمِطْعَانُ۔
بڑا نیزہ باز۔ ج۔ مَطَاعِيْنٌ و

مَطَاعِيْنٌ۔

الطَّعَانُ۔ چنل خور، حقارت کرنے والا۔
الطَّعِيْنُ۔ نیزے کی ضرب کھایا ہوا۔ طاعونزودہ۔ ج۔ طَعْنٌ۔
الطَّعِيْنُ۔ جنگ میں ماہر نیزہ باز۔الْمَطْعَنَةُ۔ نیزہ بازی۔
طَغْرَفَ طَغْرًا۔ دفع کرنا۔ ہٹانا۔الطُّغْرَاءُ وَالطُّغْرَى۔ فراہیں شاہی اور
سکون کی علامت۔ ج۔ طَغْرَاتٌ

وَطُغْرِيَّاتٌ۔

الطُّغْرَانِيُّ۔ طغرائے والا۔
تَطْعَمَ۔ علیہ۔ جاہل بننا۔الطَّعْمَةُ۔ جماعت جن کا معاملہ ایک ہو۔
ج۔ طَعْمَاتٌ وَطَعْمٌ۔الطَّعْمُ۔ سمندر، بہت پانی۔
الطَّعَامُ۔ کینے لوگ (واحد جمع) معمولپرندے۔ واحد (طَعَامَةٌ)
الطَّعَامَةُ۔ بے وقوف۔الطَّعُومَةُ وَالطَّعُومَةُ۔ بے وقوفی
کمینگی۔طَغَسَ۔ الرجل۔ کسی کا کمزور نظر ہونا۔
الْبَيْدُ۔ کسی کی طرف کمزور نظر سےدیکھنا۔ صفت (مُطَغِّشٌ)
طَغًا يَطْعُو طُغُوًا وَطُغُوًا وَطُغُوًا تَاحد سے گذر جانا۔ البحر۔ سمندر کا
جوش میں آنا۔ السَّيْلُ۔ سیلاب کا
چڑھ آنا۔تَطَعَّى۔ المَوْجُ۔ موج کا جوش مارنا۔
أَطْفَاةٌ وَطَفَاةٌ۔ سرکشی پر اکسانا۔السَّطُوعَةُ۔ بلند جگہ۔ ج۔ كَطُغُوتٌ۔
السَّطُوعَى۔ سرکشی۔الطَّاعُوتُ۔ ہر سرکش، حد سے تجاوز کرنے
والا، شیطان، شرارت کا سرغنہ۔ ہر باطلمعنود۔ ج۔ طَوَاعِجٌ وَطَوَاعِيْتُ۔
الطَّوَاعِيُّ وَالطَّوَاعِيْتُ۔ بت خانے۔طَغَى وَطَغَى يَطْغَى طُغْيًا وَطُغْيَانًا و
طُغْيَانًا۔ بمعنی طغوا وادی۔ الکافِرُکافر کا کفر میں غلو کرنا۔ الرجلُ۔
ظلم و نافرمانی میں حد سے گذر جانا۔الماءُ۔ پانی کا بلند ہونا۔
طَغَى وَطَغَى۔ فلا تَا۔ سرکشی پر اکساناسرکش بنانا۔
الطَّغِيَّةُ۔ ایک بار کی سرکشی یا شرارت، سرکشگھوڑا وغیرہ، پہاڑ کی چوٹی، ہر بلند جگہ۔
الطَّاغِيُّ۔ فا۔ ج۔ طَغَاةٌ وَطَاغُوتٌ۔الطَّاغِيَّةُ۔ مؤنث الطَّاغِيُّ۔ حیار، متکبر
سرکش بے وقوف، بجلی، رومیبادشاہوں کا لقب۔
طَفَّتْ رَنَ (مِنْ) طَفًّا۔ الشَّيْءُ مِنْهُ۔قریب ہونا۔ الْحَاظُ۔ دیوار پر
چڑھنا۔ طَفَّةٌ بِرَجُلِهِ اَوْدَيْدٌ۔پاؤں یا ہاتھ سے اٹھانا۔
طَفَّفَتْ۔ الْمِكْيَالُ۔ پیمانہ کو سھوڑا ساکم بھرنا۔ الطَّائِرُ۔ پرندہ کا بازو
پھیلانا۔ عَلَى عِيَالٍ۔ بال بچوں پربخل اور کج روی کرنا۔ طَفَفَتِ الشَّمْسُ۔
سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔بِهْ اَوْ مَوْضِعَ كَذَا۔ کسی جگہ کے
قریب کرنا۔

أَطْفَتْ - عَلَيْهِ - جھانکنا۔ الِکْیَلِ -
 پیمانہ کو بھرنا۔ لَکْ - دھوکا دینے
 کا ادا کردہ کرنا۔ عَلَیْہِ - مشتمل ہونا۔
 - عَلَیْہِ بِحَجَرٍ - پھینکنے کے لیے
 پتھر اٹھانا۔ لَکْ السَّیْفِ - تلوار
 کو جھکانا۔
 اسْتَطَفَتْ - عَلَیْہِ - اوپر سے جھانکنا۔
 اسْتَطَفَتِ الْحَاجِلَةُ - حاجت
 کا پورا ہونا۔
 السَّطَفُ - اونچی زمین۔ کنارہ۔ پہلو گھر کا صحن
 وامن کوہ۔ د - والسَّطَفُ و
 السَّطَفَاتُ وَالطَّفَافُ وَالطَّفَافَةُ
 مِنَ الْإِنَاءِ - برتن کا کنارہ۔
 السَّطَفَاتُ وَالطَّفَافُ - رات کی
 تاریکی۔ طَفَافُ الشَّمْسِ - آفتاب
 کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ کہتے ہیں۔
 آتَانَا عِنْدَ طِفَافِ الشَّمْسِ - یعنی
 غروب کے وقت آیا۔
 الطَّفِيفُ - پتھرا، ناقص، حقیر، خسیس۔
 السَّطَفَةُ - باغ کا گردا گرد۔ پہاڑوں اور
 میدان کے درمیان قطعہ زمین۔
 السَّطَفُ وَالطَّفَافُ - مِنَ الْخَبْلِ -
 چست و سبک اور تیز رفتار گھوڑا۔
 إِنْاءٌ طَفَافٌ - کناروں تک بھرا
 ہوا برتن۔
 طَفِئَتْ دَسٌ طُفُوًا - النَّارُ - آگ
 کا بجھنا۔ عَیْنُہُ - آنکھ کی روشنی
 جاتی رہنا۔
 أَطْفَأَ - النَّارَ - آگ بجھانا۔ کہتے ہیں
 أَطْفَأَ الْفِتْنَةَ أَوْ الْحَرْبَ - یعنی
 ٹھنڈا کر دیا۔
 السَّطَفَاتُ - السَّطَفَاءُ - النَّارُ - آگ
 بجھانا۔
 السَّطَفِيُّ - نَا - مُطْفِئُ الْجَمْرِ - ایام
 غیز کا چوتھا یا پانچواں دن - مُطْفِئُ

الرَّضْفِ - مصیبت۔
 السَّطَفَاءَةُ - آگ بجھانے کا آلہ۔ جر۔
 مَطْفِئٌ -
 طَفَحَ رَفٌ طَفْحًا وَطُفُوْحًا -
 الْإِنَاءُ - برتن کا بھر کر کناروں سے
 بہہ جانا۔ الْإِنَاءُ - برتن بھرنا۔ لازم و
 متعدی۔ السَّكْرَانُ - مخمور کا
 شراب سے بھرنا۔ الْمَرَاةُ بِالْوَلَدِ
 پرورے دونوں کا بچہ جننا۔ لَطَفَحَ
 عَیْنُ - میرے پاس سے چلے جاؤ۔
 طَفَحَ وَأَطْفَحَ - الْإِنَاءُ - برتن اتنا بھرا
 کہ وہ کناروں سے بہہ جائے۔
 لَطَفَحَ - الْقَدَرُ - ہانڈی کے جھاگ
 نکالنا۔ الطَّفَاحُ - پُری۔ بھرائی۔
 الطَّفَاحَةُ - ہانڈی کے جھاگ۔
 الطَّفَحَانُ - کناروں سے بہنے والا۔ لبریز
 موزن۔ طَفَحَى -
 الطَّافِحَةُ - موزن الطَّافِحَةُ - خشک۔
 السَّطَفَةُ - کفگیر۔
 طَفَدَ دَسٌ طَفْدًا - الْمَبِيتُ - میت
 کو دفن کرنا۔
 السَّطَفُ وَالطَّفَدُ - قَبْرٌ - جر۔ أَطْفَادٌ -
 طَفَرَضٌ طَفَرًا وَطُفُورًا - کوونا۔
 پھاندنا۔
 طَفَرًا - الْکَبْرُ - دودھ کا بالائی والا ہونا۔
 د - وَأَطْفَرُوا الْفَرَسَ السَّهْرَ -
 گھوڑے کو نڈی کووانا۔
 السَّطَفَرَةُ - اونچائی کی کودائی، ایک دفعہ کا
 کوونا۔ دودھ کی بالائی۔
 طَفِيسٌ دَسٌ طَفِيسًا وَطَفَاسَةً - گندا
 ہونا۔ صفت۔ طَفِيسٌ -
 طَفِيسٌ دَسٌ طُفُوسًا - الرَّجُلُ -
 مرجانا۔
 طَفِطَسَ طَفِطَفَةً - دشمن کے ہاتھوں
 میں ڈھیلا ہونا۔

الطَّفِطَفَةُ - مصر۔ والسَّطِفُطَفَةُ - پہلو۔
 کمر جانب۔ ڈھیلا اور متحرک گوشت۔ جر۔
 طَفَا طَفْئًا -
 السَّطَفَاتُ - جانب، کنارہ دریا۔ درخت کی
 ترقوازہ نرم شاخیں۔
 طَفِئَ دَسٌ وَطَفِئَ دَسٌ طَفِئًا وَ
 طُفُوًّا - يَفْعَلُ كَذَا - شروع کرنا۔
 طَفِئَ الْمَوْضِعُ - لازم ہونا۔ طَفِئَ
 الْمَرَادُجُ - مراد میں کامیاب ہونا۔ اپنی
 مراد کو پالینا۔
 أَطْفَقَهُ - بِمَرَادُجٍ - مراد میں کامیاب بنانا۔
 مراد حاصل کرنے میں مدد دینا۔
 طَفُلٌ دَسٌ طُفُولَةٌ وَطُفَالٌ - نرم و نازک
 اور پرورہ ناز و نعمت ہونا۔
 طَفُلٌ دَسٌ طُفُولًا - سورج غروب ہونے
 کے قریب وقت میں داخل ہونا۔ سورج کا
 غروب ہونے کے قریب ہونا۔
 طَفِلٌ دَسٌ طُفْلًا وَطُفْلًا - الْكِبَارُ -
 مٹی لگنے سے پودہ کا نہ بڑھنا۔
 طَفُلٌ - الدبیل - رات کا قریب ہونا۔
 طَفَلَتِ الشَّمْسُ - سورج کا ڈوبنے
 کے قریب ہونا۔ الرَّجُلُ - طفیلی ہونا۔
 - الْكَلَامُ - کلام سوچنا۔ طَفَلَهُ -
 نرم کرنا نرمی سے اونٹوں کو بانٹنا۔
 أَطْفَلَ - سورج غروب ہونے کے قریب
 وقت میں داخل ہونا۔ غروب کے وقت
 سورج کا سر سرخ ہونا۔ الْأَنْحَى
 عورت کا چھوٹے نیچے والی ہونا۔
 تَطْفَلُ - طفیلی ہونا۔ بچپن اختیار کرنا۔ بچوں کی
 سی عادت اختیار کرنا۔
 السَّطَفُ - ہر نازک و نرم شے۔ جر۔ طِفَالٌ
 وَطُفُولٌ مَوْتٌ - طَفَلَهُ -
 السَّطَفُ - جر۔ أَطْفَالٌ - ہر چیز کا چھوٹا۔
 ہر وحشی جانور کا بچہ۔ مَوْتٌ - طِفْلُهُ -
 الطِفْلُ - حاجت، رات۔ سورج کا

ڈوبنے کے قریب ہونا۔ چمکاری۔ ریح
 طِفْلٌ۔ نرم ہوا۔ الطفال والطفال
 الطفل۔ مصر۔ بچپن کی حالت، اندھیرا۔
 سورج طلوع اور غروب ہونے سے کچھ
 پہلے کا وقت۔
 الطفولة والطفالة والطفولة
 بچپن۔
 الطفيلي بن بلائے دعوت میں آنے والا۔ ایک
 آدمی طفیل کی طرف منسوب۔
 الطفيل۔ نیچے والی انسان جو یا جانور،
 جہ۔ مطافیل و مطافیل۔
 طفق۔ ان کا طفق۔ غنا۔ ۴۔ قید کرنا۔
 طفق۔ ان کا طفق۔ اطمینان بخش ہونا۔
 طفق۔ خوش خلق ہونا۔
 الطفایہ۔ جھوٹ، بہودہ کلام، قید۔
 طفاطفا طفاطفا۔ پانی کے اوپر
 تیرنا اور پانی میں نہ ڈوبنا۔ الطفی
 ہرین کا تیز دوڑنا۔ فوقی القریس۔
 گھوڑے پر کود کر سوار ہونا۔ رخی
 الارض۔ داخل ہونا۔ فلاں۔ مرنا۔
 الطفاوة۔ ہانڈی کا جھاگ، سورج یا چاند
 کا ہلنا۔
 الطفیہ۔ دھاری دار زہریلا سانپ۔ جہ۔
 طفی۔
 طق۔ پتھر پتھر پڑنے کی آواز۔
 الطقس۔ طریقہ، خصوصاً دینی و مذہبی طریقہ۔
 جہ۔ طقس۔ موسم، آب و ہوا۔
 طقطقت۔ طقطقت۔ الدواب
 جانوروں کا پاؤں سے آواز نکالنا۔
 طل دن۔ طلاء الغریبہ۔ طلنا۔ ۴
 حقیقہ۔ حق کم دینا یا بالکل مار لینا۔
 طلّیت السماء۔ الارض۔ آسمان کا
 شبنم برسانا۔ ۴ بالدهین۔ تیل کی
 مالش کرنا۔ طل الیل۔ تیرنا۔
 طل رس، وطل طلاء وطل۔ الدّم

بغیر بدلہ لینے کے چھوڑ دینا۔ صفت۔
 رطلین، وطلول وطل۔
 آطل۔ الدّم۔ بغیر قصاص کے چھوڑ دینا۔
 الزمان۔ قریب ہونا۔ علیہ۔
 اوپر سے جھانکنا۔ علی حقی۔ غالب
 آنا۔
 تطل۔ دور کی چیز دیکھنے کے لیے گردن اوپنی
 کرنا یا پاؤں کی انگلیوں پر کھڑا ہونا۔
 استطل۔ علیہ۔ جھانکنا، اوپر سے دیکھنا
 - الفرس ذنبہ ویدنبہ گھوڑے
 کا اپنی دم کو اٹھانا۔
 الطل۔ ہلکے بارش، شبنم، نمی۔ جہ۔
 طلال وطلیل۔ نازوالا۔ خوبصورت
 بڑی عمر والا۔ سانپ۔ د۔ والطل۔
 دودھ، خون، اوستی کے دودھ کی قلت۔
 الطل۔ سانپ۔
 الطلة۔ خوشنما، دل پسند خوشبو، لذیذ شربت،
 بیوی شبنم کاڑ کیا ہوا باغ۔
 الطلة۔ ایک مرتبہ دودھ پینے کی مقدار۔
 گردن۔ جہ۔ طلل۔
 الطلاء۔ بے بدلہ خون۔
 الطلل۔ اونچی جگہ، کھنڈرات، سرچیز کا
 جسم۔ جہ۔ اطلال وطلول۔
 طلل السیفینہ۔ کشتی کا پردہ۔ طلل
 الماء۔ پانی کی سطح۔
 الطلل۔ من الدار۔ گھر کا چوترہ۔
 الطلالہ۔ ہر چیز کا جسم، خوبصورتی، اچھی حالت،
 شادمانی، بشارت، کھنڈرات۔
 الطلیل۔ پرانی چٹائی۔ جہ۔ طلاء واطلال
 وطلل۔
 المطل۔ بلند مکان۔
 المطلول۔ مفع۔ من الاماکن شبنم
 والی جگہ۔
 المطل۔ کمر۔
 طلب دن، طلبا۔ الشیء۔ ڈھونڈنا۔

الید۔ راغب ہونا۔
 تطلّب واطّلب۔ الشیء بار بار تکلیف
 سے مانگنا۔ طلب الشیء۔ ملت نے
 کر مانگنا۔
 طالبہ جلاباد مطالبہ۔ اپنے حق کا
 مطالبہ کرنا۔
 اطلبہ۔ مانگنے کے لیے مجبور کرنا۔ درخواست
 منظور کرنا۔ اطلبہ الفقہ۔ مانگی
 ہوئی چیز۔ محتاج کی نے اس کو مانگنے پر
 مجبور کیا۔
 الطلبة۔ مطالبہ کا اسم، مانگنے کی نوعیت۔
 د۔ والطلبہ۔ مانگی ہوئی چیز۔
 الطلب۔ مانگی ہوئی چیز، طلب کرنے والا۔
 جہ۔ اطلب وطلبہ۔
 الطلبة۔ ایک دفعہ کا مانگنا۔ مخصوص
 دعارمولہ۔
 الطلبة۔ دور کا سفر۔
 الطالب۔ فا۔ شاگرد۔ جہ۔ طلبہ وطلاب
 وطلب وطلب۔
 الطلوب۔ جہ۔ طلب۔ والطلب۔ جہ۔
 طلباء والطلاب۔ بہت تلاش
 کرنے والا۔ بشرط طلب۔ گہرا کنواں۔
 الطلیبہ۔ مونث الطلیب۔ جہ۔
 طلاوت۔
 المطلب۔ دعویٰ، مطلب، مقصد، مسئلہ۔
 جہ۔ مطالب۔
 المطلب۔ فا۔ ماء مطلب۔ دور کا
 پانی۔
 المطلوب۔ مفع۔ جو طلب کیا جائے۔
 جہ۔ مطالب۔
 طلب دن، طلوتنا۔ الماء۔ پانی کا بہنا۔
 طلب۔ علی کذا۔ زیادہ ہونا۔
 الطلثہ۔ ضعیف العقل اور ضعیف البدن
 جابل۔
 طلح رف، طلحاً وطلحاً۔ البعیر

اونٹ کا تھکا ماندہ ہونا۔ صفت (اُطْلَحَ)
وُطِّلِحَ وُطِّلِحَ اُطْلَحَ البعيرُ و
اُطْلَحَهُ وَاُطْلَحَهُ - تھکانا۔ اُطْلَحَ
عَلَى فَلَانٍ - امرار کرنا۔
اُطْلَحَ رَفٌّ، اُطْلَحًا - خراب اور فاسد ہونا۔
اُطْلَحَ رَسٌّ، اُطْلَحًا وُطِّلِحَ - خالی پیٹ
ہونا۔ صفت (وُطِّلِحَ وُطِّلِحَ و
اُطْلَحَ) طَلَعَتِ الْاِبِلُ اُطْلَحًا -
بہول کھانے سے اونٹ کا پیٹ خراب
ہو جانا۔
الطَّلَحُ - صم۔ شگوفہ درخت ثمرہ کیلا۔
حوض میں بجا ہو گا گدلا پانی۔ بہول کا درخت
واحد (اُطْلَحَ)
الطَّلَحُ - لاغر۔ تھکا ہوا۔ ج۔ اُطْلَاحُ
وُطْلَاحُ
الطَّلَحُ - صم۔ نعمت۔
الطَّلَاحُ - شریر، فسادى، بدکار۔ ج۔
طَالِحُونَ وُطْلَحَ
الطَّلَاحُ - کیکر کا درخت۔ اِبِلٌ طَّلَاحٌ -
سفر کے تھکے ہوئے اونٹ۔
الطَّلِيحُ - چمچڑی، لاغر، تھکا ہوا۔ کہتے ہیں۔
بعيرٌ طَّلِيحٌ و ناقةٌ طَّلِيحَةٌ و
طَّلِيحَةٌ - ج۔ طَلَّاحٌ وُطْلَاحِي -
الطَّلَاحِيَّةُ - کاغذ کا ایک ورق۔ ج۔
طَلَّاحِيٌّ - (مژدہ کلام)
الطَّلَاحُ - فى الكلام - بہتان گھڑنے
والا۔ فى المال - ظالم۔
اُطْلَحَ رَنٌّ، اُطْلَحًا - الشیءُ سبباً کرنا۔
خراب کرنا۔ عِبَارَةٌ لَوَدَّ كَرْنَا۔
اُطْلَحَ - الدَّمْعُ - ہنسا، بکھڑا۔
الطَّلَحُ - گدلا پانی۔ خراب پانی۔
الطَّلَحَاءُ - بیوقوف عورت۔
اُطْلَحَ عَمْرٌ - تبرک کرنا۔ اُطْلَحَ خِمَاتٌ -
سخت امور۔

بیناں جاتی رہنا۔ وطلّس الکیتابۃ
تحریر مٹا دینا۔
طلّس (رس) طکسا وطلّس رک
طلّسۃ فاکتری رنگ کا ہونا
صفت راطلّس) جہ۔ طلّس
طلّس۔ بل فی المیجین۔ جیل میں
ڈالا جانا۔
تطلّس۔ الکیتاب۔ مٹنا، محو ہونا۔
وتطلّس الرجل۔ طلیسان
پننا۔
انطلّس۔ الامر۔ چھینا۔ پوشیدہ ہونا۔
الطلّس۔ کال چادر۔ الطلّس۔ محو
شدہ تحریر۔ میلا کپڑا۔ جہ آطلّس۔
الطلّسۃ۔ فاکتری رنگ۔ پتلا بادل۔
جہ۔ طلّس۔
الطلّسۃ۔ کپڑے کا ٹکڑا جس سے لکھی
ہوئی تختی صاف ک جائے۔
الطلّیس۔ اندھا نابینا۔
الطیلس۔ جہ۔ مبیالیں والیطیلسان
والیطیلسان والیطیلسان۔ جہ۔
طیالیں و طیالیسۃ۔ سبز چادر جس کو
علماء و مشائخ استعمال کرتے ہیں۔
الاطّلس۔ پرانا کپڑا۔ میلا کپڑا۔ چھوڑی کپڑا۔
طلّسم۔ عین القتال۔ لڑائی سے بچنے
بٹھنا۔ الرجل۔ نیچی نظر کر کے غصہ
کے شکل بنانا۔ الساجر۔ جادوگر کا
جادو کی لکیریں کھینچنا۔
الیطیسم۔ جہ۔ طلاسم و الطیسم
جہ۔ طلسمات۔ جادوگر کی تحریریں
یا لکیریں۔
طلّطۃ۔ بلانا۔
الطّطل و الطّطلۃ۔ مصیبت۔
الطّطلۃ۔ مصیبت، موت۔ حلق کا
کوا۔ عام لوگ اس کو طّطلۃ کہتے
ہیں۔

الطَّلْعُ - مَوْت، سَمَت، بيماری۔
طَلَعَ رَن طُلُوْعًا وَمَطْلَعًا وَمَطْلَعًا -
الْكَوْكَبُ دَخَلَ سِتَارَهُ وَخَرَجَ طُلُوعَ بَرْنَا -
آبَا - عَنَّهُمْ - غَابَ بَرْنَا - دُورِ بَرْنَا -
طَلَعَ دَفَنٍ وَطَلَعَ (س) طُلُوْعًا -
الْجَبَلُ - پھاڑ پر چڑھنا - عَلَى الْأَمِيرِ
جَانَا - الْبِلَادُ - کُسی ملک کا قصد
کرنا - الْمَكَانُ - کُسی جگہ پہنچنا -
مِنَ الْبِلَادِ - ملک سے نکلنا - و
طَلَعَ دَرْخْتِ خَرْمَا کَا بَیْوُنَا، بَیْمَانِ بَیْرَا -
طَالَعَهُ مَطَالَعَةً وَطِلَاعًا - زَیَادَتِ غُورِ
و فکر سے مطلع ہونا - الْکِتَابُ -
کتاب پڑھنا - هُ بِالْأَمِيرِ بَیْشِ کَرْنَا -
بیان کرنا -
أَطْلَعَ - الْكَوْكَبُ - سِتَارَهُ کَا نَکَلْنَا -
النَّبَاتُ - نَبَاتَاتِ کَا اَنَّا - النُّجْلُ
دَرْخْتِ خَرْمَا کَا شَکُوْفُهُ نَکَلْنَا - الشَّجَرُ -
دَرْخْتِ کَا پَتِے لَانَا - النُّخْلَةُ -
دَرْخْتِ خَرْمَا کَا دَرَارِ بَرْنَا - عَلَى الشَّيْءِ
جَھَانَا - الْمَقْبَرَةُ - قَبْرِ کے طُلُوعِ
ہونے کو دیکھنا - هُ عَلَى سَیْرِهِ - اِنِے
بَھید سے کُسی کو واقف کرنا -
اَطْلَعَ - عَلَیْهِ عَرُودًا - اچھا سلوک کرنا -
اَطْلَعَهُ طَلَعَ اَمْرِهِ - کُسی کو حقیقت
حال سے واقف کرنا - الرَّجُلُ -
قے کرنا - الرَّامِي - تیر انداز کا تیر
نشانہ کے اوپر سے گزر جانا - عَلَى
فَلَانٍ - اچانک آنا -
اَطْلَعَ - الْأَمْرُ وَ عَلَیْهِ - جَانَا - عَلَیْنَا -
اچانک آ جانا - الْمَقْبَرَةُ - طُلُوعِ قَبْرِ
کو دیکھنا - اَطْلَعَ طَالَعَ الْعُدُوَّ -
دُشمن کے پوشیدہ حال سے واقف ہونا -
تَطْلَعُوا - جَانَا - کُسی کے چہرہ کی طرف دیکھنا
- الرَّجُلُ - کُسی کو بلانا اور غالب آنا -

تَطَّلَعَ الْمَكِيلُ - پیمانہ کا بھرتا -
الْمَاءُ مِنَ الْأَنْبَاءِ - پانی کا برتن کناروں
سے بھر جانا -

اِسْتَطَّلَعَهُ - ظاہر ہونے کی خواہش کرنا -
حقیقت امر دریافت کرنا -

الطَّلَعُ - مقدار - کہتے ہیں "الجیش طَّلَعُ
الْفَيْ" یعنی ہزار کی مقدار اور انداز
میں ہیں - مِنَ النَّخْلِ - کھجور کا
گاجھا - شگوفہ -

الطَّلَعُ - اِطَّلَعَ کا اسم - سانپ -
الطَّلَعُ وَالطَّلَعُ - بلند مکان - جہاں سے
بھٹکا جائے نگرانی کی امر بھی جگہ - گوشہ
الطَّلَعَةُ - دیدار - چہرہ -

الطَّلَعُ - عین الزمان برتن کی پُری -
ج - طَّلَعُ الشَّيْءِ - چیز کی
مقدار - عین طَّلَعُ - آنسوؤں
سے بھری آنکھ - قَدْحُ طَّلَعُ -
بھرا ہوا برتن -

الطَّلَعُ - بہت چڑھنے والا - "هُوَ
طَّلَعُ الثَّنَائِيَاوَالْأُنْجِدِ" بڑے بڑے
امور کا قصد کرنے والا یا کاموں کا تجربہ کار
جو امور کو بحسن و خوبی چلائے -

الطَّلَعَاءُ وَالطَّلَوْنُ - قے -
الطَّلِيعَةُ - ہراول مقدمہ الجیش و دشمن کے
حالات معلوم کرنے کے لیے لشکر سے
پہلے بھیجا جانے والا (واحد جمع) ج -
طَّلَايُحُ -

الطَّلَايُحُ - فا - پہلی رات کا چاند - صبح کا ذب
راکبہ، جنم پتری - ج - طَّلَايُحُ -

الطَّلَوْنُ - بمعنی طالع
الْمَطْلَعُ وَالْمَطْلَعُ - سورج اور ستاروں
کے نکلنے کی جگہ - مشرق - سیڑھی -
دیکھ بھال کرنے کی جگہ - ج - مَطَالِغُ
مَطْلَعُ الْأَمْرِ - کسی کام کے حصول کا
ذریعہ اور طریقہ - مَطْلَعُ الْقَصِيدَةِ -

قصیدہ کا پہلا شعر -

الْمُطَّلَعُ - فا - قوی، غالب آنے والا - بلند
رتبہ -

الْمُطَّلَعُ - مفع - اوپنی جگہ - ڈھلان والی
جگہ - آنے کی جگہ -

طَلَّفَ - علیہ - زیادہ کرنا -

أَطْلَفَهُ - کذا کسی کو کوئی چیز بخشنا -

أَطْلَفَ الدَّمِ - خون کو رائیگان کرنا -

الطَّلَفُ - بخشش آسان چیز - زائد چیز -

(ر - وَالطَّلَفُ) رائیگان - باطل -

طَلَّقَ رَضًا طَلْقًا - الشَّيْءُ فَلَانَا - کسی

کو کوئی چیز دینا - طَلَّقَ يَدَهُ بِخَيْرٍ -

بھلائی کا ہاتھ کھولنا -

طَلَّقَتْ رَنًا طَلَقًا - الْمَرْأَةُ مِنْ

زَوْجِهَا - عورت کا اپنے شوہر سے

جدا ہونا اور اس کو چھوڑ دینا - صفت

رَطَائِقُ - ج - طَلَّقَ وَطَائِقَتُهُ -

ج - طَوَائِقُ - النَّاقَةُ - اونٹنی کا

پائے بند سے کھلنا -

طَلَّقَ رَسًا طَلَقًا - دور ہونا -

طَلَّقَ رَسًا طَلَقًا وَطَلُوقَةً - اللِّسَانُ

فَصِيحُ زَبَانٍ ہونا - خوش بیان ہونا -

طَلَّقَ رَسًا طَلَقًا - الرَّجُلُ - ہنس

مکھ ہونا - خندہ پیشانی ہونا - طَلَّقَتْ

الْمَرْأَةُ طَلَقًا عَوْرَتَ كَادِرُوْرَه

میں مبتلا ہونا - صفت (مَطْلُوقَةٌ)

طَلَّقَ - قَوْمَهُ - قوم کو چھوڑ دینا - اور

جدا ہونا - الْمَرْأَةُ زَوْجِهَا - خاوند کا

عورت کو طلاق دینا - النَّخْلَةُ - درخت

خرامیں کا بھاؤ دینا - قلم لگانا -

أَطْلَقَ - الْمَرْأَةُ أَوَالْنَخْلَةِ - بمعنی

طَلَّقَ - الْمَوَاشِي - مویشی کو چھوڑنا -

- الْأَسِيرُ - قیدی کو رہا کرنا -

بَدَأَ بِخَيْرٍ - بھلائی کے لیے ہاتھ

کھولنا - فِي كَلَامِهِ - عام لانا - مقید نہ

کرنا - أَطْلَقَ رَجُلَهُ - جلدی کی -

أَطْلَقَ الدَّوَاءَ بَطْنَهُ - دوا

دست لائی -

تَنَطَّلَقَ - دَجْهَهُ - خندہ پیشانی ہونا -

ہشاش ہونا -

اِسْطَلَقَ - جانا - لِسَانُهُ - زبان کا رواں

ہونا - وَجْهُهُ - کشادہ رو ہونا -

نَفْسُهُ لِلْأَمْرِ - شرح صدر ہونا -

اِسْطَلَقَ - خندہ رو ہونا - ہشاش بشاش ہونا -

اِسْتَنَطَلَقَ - اِسْطَلَقَ - دستوں کا آنا -

النَّظْمُ - ہرن کا تیزی سے دوڑنا - الامتد

جلدی کرنا -

الطَّلَقُ - م - دروزہ - ہرن - ج - أَطْلَقَ

ر - وَالطَّلَقُ وَالطَّلَقُ وَالطَّلَقُ وَ

الطَّلَقُ (آزاد - غیر مقید - حِسْ

طَلَقًا وَطَلَقًا - بغیر ہتھکڑی کے قید

کیا گیا - يَوْمَ طَلَّقَ - وہ دن جس میں

نہ گرمی ہو نہ سردی ہو - رَجُلٌ طَلَّقَ

الْيَدَيْنِ سَخِي أَدَمِي - رَجُلٌ طَلَّقَ

الْوَجْهَ وَطَلَّقَهُ وَطَلَّقَهُ وَطَلَّقَهُ

وَطَلَّقَهُ - کشادہ رو آدمی - طَلَّقَ

اللِّسَانَ وَطَلَّقَهُ - فصیح، زبان کی

روانی والا -

الطَّلَقُ - حلال حصہ کھال کا بنا ہوا بند -

الطَّلَقُ وَالطَّلَقُ - ابرک -

الطَّلَقُ - مصر - گھوڑے کی ایک دوڑ آنت

مضبوط بٹی ہوئی رسی - کھال کا بنایا ہوا بند

ج - أَطْلَقَ - عَلَى الْإِطْلَاقِ او

مُطْلَقًا - یعنی عام طریقہ پر بلا استثناء -

الطَّلَقَاءُ - جن لوگوں کو فتح مکہ کے دن

اسلام قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا -

مورد احسان بنے -

الطَّلَاقُ وَالْمِطْلَاقُ وَالْمِطْلَاقُ - بہت

طلاق دینے والا -

الْمُطْلَقُ - آزاد - وہ گھوڑا جس کے ایک

پاؤں میں سفیدی نہ ہو۔
 طَلَمَ دَن طَلَمًا وَطَلَمَ - الخُبْزَةُ
 روٹی کو تھکے سے برابر کرنا۔ طَلَمَ
 الْعَوَقَ عَنْ حَبِيْبِهِ يَشَانِي سے
 پسینہ پونچھنا۔
 الطَّلْمُ - روٹی چوڑی کرنے کا تختہ۔ چکوٹی۔
 الطَّلْمُ - دانوں کا میل۔ الطَّلْمَةُ -
 روٹی۔ جر۔ طَلَمَ -
 الِمْطَلَمَةُ - بیلین۔ عوام اس کو شوبک
 کہتے ہیں۔
 طَلَمَسَ - نر شوئی کرنا۔ تیوری چڑھانا۔
 اَلِکْتَابُ - مٹانا۔
 اِطْلَمَسَ - اَلْدَّيْلُ - رات کی تاریکی کا
 شدید ہونا۔
 الطِّلْمِيسَاءُ - تاریکی۔ وہ زمین جس میں کوئی
 علامت وغیرہ نہ ہو۔ پتلا بادل۔
 طَلَّهْ دَفْ طَلَّهْ - الرجلُ فِي الْبِلَادِ -
 ملک میں جانا۔
 اِطْلَاهَا - اِطْلَاهَا - اطلاع پانا۔
 الطُّلَّةُ - پتلا بادل۔ الطُّلَّةُ - بقیہ
 مال۔
 طَلَّاهُ يَطْلُوهُ طَلَوًا - جانور کو ٹانگ باندھ
 کر روکنا۔
 طَلَّاهُ يَطْلُوهُ اِطْلَاوَةً - الرجلُ - ویر کرنا۔
 اِطْلَاهُ - الْوَحْشِيَّةُ - بچہ والی ہونا۔
 اِطْلُوْا اِطْلِيْلًا - خوش کلام ہونا۔
 اِطْلَاوًا وَطْلُوْا - ہرن کا وہ بچہ جو ابھی
 پیدا ہوا ہو۔ ہر چھوٹی چیز۔ جر۔ اِطْلَاهُ
 وَطْلَاهُ وَطْلِيَّ وَطْلِيَّانَ وَ
 طْلِيَّانَ۔
 اِطْلُوْا - بیڑیا۔ اِطْلُوْا جانوروں کا بچہ۔
 اِطْلُوْا - صبح کی سفیدی۔
 اِطْلَاوَةً وَ اِطْلَاوَةً وَ اِطْلَاوَةً -
 خوبصورتی، رونق، منہ میں کھانے کا بقیہ۔
 جادو۔ خون یا دودھ کے اوپر کی جھلی۔

طَلَى يَطْلِي طَلِيًّا - جانور کو ٹانگ
 سے باندھ کر روکنا۔ الْبَعِيْرُ الْقَطِرَانُ
 او بالْقَطِرَانِ - اونٹ پر قطران ملنا۔
 - الشَّيْءُ - روکنا۔
 طَلَى (رَس) طَلَى - فُوْعُ - دانوں کا زرد
 ہونا۔ لِسَانُهُ - زبان کا ثقیل ہونا۔
 طَلَى تَطْلِيَةً - گانا۔ خُلَاتُ - قید کرنا۔
 گالی دینا۔ الْبَعِيْرُ الْقَطِرَانُ -
 اونٹ پر قطران ملنا۔ اللَّيْلُ الْاَفَاقِ
 رات کا عالم کو ڈھانکنا۔
 اَطْلَى - کمزوری وغیرہ سے گردن کا جھکنا۔
 تَطْلَى - لہو و لعب میں مشغول ہونا۔ وَاَطْلَى
 بِالْقَطِرَانِ قطران سے مالش کیا جانا
 اَطْلَى - شخص، وجود، قطران ملا ہوا۔ سَخَتْ
 مَرِيضٌ - ہرن کا بچہ۔ جر۔ اَطْلَاءُ
 خواہش۔
 اَطْلَى - لذت۔
 اِطْلَاءُ - قطران۔ مالش کی چیز۔ انگوروں
 کا کاٹھا رس۔ شراب۔ ہرن کے بچہ
 کی ٹانگ باندھنے کی سی (اِطْلَايَةً)
 ہر مالش کی چیز۔
 اِطْلَاءُ جمع ہوئے خون پر کی جھلی۔
 اَطْلَى - دودھ کا گھوٹ۔
 اِطْلِيَّةُ وَ اِطْلَاةُ - گردن۔ جر۔ طَلَى۔
 اِطْلَى - بکری کا چھوٹا بچہ۔ جر۔ طْلِيَّانَ
 (وَالطَّلِيَّانَ) دانوں کی زردی۔
 اِطْلَى وَ اِطْلَاءُ - تنگ ندی۔ جر۔
 مِطَالٍ۔
 اِطْلَى - سخت بیمار۔ عمر قیدی۔
 طَلَمَ دَن طَلَمًا وَ طَلَمًا - اِلْتَاءُ -
 برہن بھرنا۔ اِلْمَاءُ - پانی کا کسی
 کو ڈھانکنا۔ الشَّعْرُ - بال کاٹنا یا
 گرہ لگانا۔ الشَّيْءُ - زیادہ ہونا۔
 اَلْمُرُ - بڑا ہونا۔
 طَلَمَ دَن طَلَمًا - اِلْمُرُ - کنویں کو

پاٹ کر زمین کے برابر کرنا۔
 طَلَمَ دَن طَلَمًا وَ طَلَمًا - الْفَرَسُ -
 گھوڑے کا آہستہ آہستہ دوڑنا۔
 طَلَمَ وَ طَلَمَ وَ طَلَمَ - الطَّائِرُ -
 پرندے کا ٹپنی پر اترنا۔
 اَطْلَمَ وَ اسْتَطْلَمَ - الشَّعْرُ - بالوں کا
 کاٹنے کے وقت کے قریب پہنچنا۔
 اِطْلَمَ - پانی، سمندر، بڑی تعداد، عمدہ گھوڑا
 تعجب، تعجب انگیز۔ جَاءَ بِالْطَّلِيَّةِ
 وَالرَّيْمِ - وہ بہت مال لایا۔
 اِطْلَمَ - مِنَ النَّاسِ - لوگوں کی جماعت۔
 طَلَمَةُ الْقَوْمِ - قوم کے جمع ہونے
 کی جگہ۔
 اِطْلَمَ - مِم - نرم اور لمبی دوڑ۔ عمدہ
 گھوڑا۔ طَلَمَ النَّاسِ - لوگوں کی
 کثرت۔ فَوْسُ طَلَمِيَّةٍ - تیز رو
 گھوڑا۔
 اِطْلَمَ - چوٹی کی مصیبت۔ بڑا حادثہ،
 قیامت۔
 اَلْاِطْلَمِيْمُ - ٹانگیں۔
 طَلَمَ دَن طَلَمًا - الشَّيْءُ - چھونا۔
 طَلَمَ دَن طَلَمًا - دَن - طَلَمًا -
 الْمَرْأَةُ - عورت کا حیض والی ہونا۔
 صِفَتُ رِطَامِشٍ
 اِطْلَمَ - مِم - میل کچل، فساد، خون۔
 شُكْ -
 طَلَمَ دَن طَلَمًا وَ طَلَمًا وَ طَلَمًا -
 بَصَرُهُ اِلَيْكَ - نظر کا اٹھنا۔
 يَبْصُرُهُ اِلَيْكَ - بلندی کی طرف دیکھنا۔
 يَأْتِيهِ نَاكٌ چڑھانا۔ مغرور ہونا۔
 بَاءُ - لے جانا۔ فِي الطَّلَبِ - تلاش
 میں بہت کوشش کرنا۔
 طَلَمَ دَن طَلَمًا وَ طَلَمًا -
 الدَّائِلَةُ - جانور کا سرکش اور منہ زور
 ہونا۔ الْمَرْأَةُ عَلَى نَوْجِهَا عَوْرَت

الطمانعة: خواہشمند۔
 الطمانع والطمناح: بہت لالچی، بڑا
 حریص۔
 المطمع: جس کی خواہش کی جائے۔ جر۔
 مَطَامِعُ۔
 المَطْمَعَةُ: طمع کو برا سمجھنے کرنے وال چیز۔
 طَمِعْتُ دس، طَمَعًا۔ عَيْنُهُ: آنکھ کا
 کیچڑ والی ہونا۔
 طَمَلْتُ دس، طَمَلًا۔ الخُبْرُ الخُبْرُ:
 روٹی کو بیلین سے چوڑی کرنا۔ الثوب
 کپڑے کو گہرا رنگنا۔ الدَّمُ السَّهْمُ
 وغیرہ: خون کا تیر وغیرہ کو لقمہ کرنا۔
 الراعي الابل: چرواہے کا اونٹوں کو
 سختی سے ہانکنا۔
 طَمِلْتُ دس، وطَمِلْتُ طَمَلًا: خون، تیل
 وغیرہ سے لقمہ کرنا، صفت (طَمِيلٌ)
 اَطَمَلُ۔ الکتاب: تحریر کو مٹانا۔
 اُنْطَمَلُ۔ الرجل: چوروں کا شریک
 بننا۔
 الطَّمْلُ: مص: گوندھا ہوا آٹا، مخلوق، خلقت
 الطَّمْلُ: احمق، کمینہ، بدکردار۔ بد زبان۔
 بے شرم، سیاہ کبل۔ بد حال، بد ہیئت
 فقیر، مفلس، پرانا کپڑا۔ جر۔ طَمُولٌ۔
 د۔ اِبْطَمَلَةُ وَالطَّمَلَةُ وَالطَّمَلَةُ:
 گدلا پانی، کیچڑ۔
 الطامِلُ: فا۔ بدکار، بے حیا۔
 الطَمِيلُ: گدلا پانی، گنام، چٹائی، بار۔ چوڑا
 پھل۔ بکری کا بچہ۔
 السَّمُولُ: بدکار جو اپنے فعل کی پرواہ نہ کرے
 المِطْمَلَةُ: روٹی چوڑی کرنے کا بیلین۔
 طَمَنَنْ طَمَنَانَةً وَطَمَنَ: طَهَرَ
 پیٹھ کو جھکانا۔ پست کرنا۔ الشیء۔
 چیز کو ساکن کرنا۔ تَطَامَنَ پست
 ہونا۔
 اَطْمَنَ اَطْمِنَانًا وَطْمَانِيَةً: اَلِيَهُ۔

خط بھٹی بات۔ جر۔ طَوَامِيرُ۔
 المِطْمَرُ والمِطْمَارُ: معماروں کا دھابگا،
 کمنہ لباس والا، هُوَ عَلَى مِطْمَارٍ
 آہستہ، وہ اپنے باپ کے مشابہ ہے۔
 المِطْمُورَةُ: ترمانہ، جس میں غلہ چھپایا
 جاتا ہے۔ قید۔ جر۔ مَطَامِيرُ۔
 طَمَسَ دس، طَمُوسًا۔ دور ہونا۔ لا
 اَدْرِي اَيْنَ طَمَسَ: مجھے نہیں معلوم
 وہ کہاں گیا۔ يَعْيِيهِ: دور تک دیکھنا۔
 طَمَسَ دس، طَمَسًا وَطَمُوسًا و
 تَطَمَسَ وَالطَّمَسَ: مٹنا۔
 طَمَسَ النَجْمُ او البَصَرُ: ستارے
 یا آنکھ کی روشنی جاتی رہنا۔
 طَمَسَ دس، طَمَسًا: الشیء۔ مٹانا۔
 ہلاک کرنا۔ دھانکنا، اثر کو جڑ سے کھو
 دینا۔ اَلْغَيْمُ النُّجُومُ: بادل کا ستاروں
 کی روشنی کو زائل کر دینا۔
 طَمَسَ دس، طَمَسَةً: الشیء۔ اندازہ
 کرنا۔ رُبُوحٌ طَمَسَ: مٹے ہوئے
 مکانات۔
 الطَّمِيسُ والمِطْمُوسُ: اندھا۔
 طَمَطَمَ: بیچ سندر میں تیرنا۔
 الطِمْطِمُ والطِمْطِيبُ والطِمْطِيفُ:
 زبان کی لکنت۔
 طَمَعُ دس، طَمَعًا وَطَمَاعًا وَطَمَاعِيَةً:
 فی الشیء دہ۔ حرص کرنا۔ لالچ
 کرنا۔ صفت دکامع و طمع و
 طَمِعُ: جر۔ طَمِعُونَ وَطَمَعَاءُ و
 اَطْمَاعُ وَطَمَاعِي۔
 طَمَعُ دس، طَمَاعَةً: بہت لالچ کرنا۔
 طَمَعَةُ: حرص دلانا۔
 اَطْمَعَةُ: لالچ میں ڈالنا۔
 تَطْمَعُ: لالچی ہونا۔ خواہش مند ہونا۔
 الطَّمَعُ: مص۔ وہ چیز جس کی خواہش کی
 جائے، لشکر کی تنخواہ۔ جر۔ اَطْمَاعُ۔

کافران ہونا۔ صفت دکامع، جر۔
 طَوَامِيرُ۔
 طَمَعُ: الفرس: گھوڑے کا اگلی ٹانگوں
 کو اٹھانا۔ بالشیء فی الهواء: چیز
 کو ہوا میں پھینکنا۔
 اَطْمَعُ: بَصَرُهُ اَلِيَهُ: نگاہ اٹھانا۔
 طَمَحَاتُ الدَّهْرِ وَطَمَحَاتُهُ:
 مصائب زمانہ۔
 الطِمَاحُ: مص: تکبر، فخر۔ الطِمَاحُ: دور
 حریص۔
 طَمَحَ دس، طَمَحًا: بَانَفَهُ: تکبر کرنا۔
 طَمَحَ دس، طَمَحًا: الشیء۔ دفن کرنا،
 چھپانا۔ اَطْمَحًا وَطَمُورًا وَطَمَارًا،
 و طَمَرَانًا: کو دنا، اچھلنا۔
 طَمَرَنَ دس، طَمُورًا: سفر کرنا۔
 طَمَرَنَ دس، طَمَرًا: المِطْمُورَةُ: کھائی
 کو بھرنے۔ و طَمَرَنَ دس، طَمَرًا۔
 الجَرْمُ: زخم کا چھوٹنا۔ سو جنا۔
 الیدُ: ہاتھ کا سو جنا۔
 طَمَرُ: فی صَوْبِهِ: دائرہ میں درد ہونا۔
 طَمَرُ: الشیء۔ لپیٹنا۔ دفن کرنا، گھر کا
 پردہ لٹکانا۔
 اَطْمَرُ: علی فرسہ: گھوڑے پر پیچھے سے
 کود کر سوار ہونا۔
 الطِمْرُ: پرانا بوسیدہ کپڑا، مفلس، نادار۔
 جر۔ اَطْمَارُ: دس۔ والطِمْرُ والطِمْرُ
 والطِمْرُ والطِمْرُ: لپیٹنا، لپیٹنا
 کا تیز رفتار کھوڑا۔
 الطامِرُ: پستو۔ جر۔ طَوَامِيرُ: هُوَ طَامِرُ
 بَنُ طَامِرٍ: وہ ایک جھول اور
 غیر مشہور آدمی ہے، اس کے باپ کا
 بھی کوئی پتہ نہیں۔
 الطُمُرُ: جمل، نادانی۔
 طُمُرَةُ: الشباب: آغاز جوانی۔
 الطامُورُ والطومارُ: جلد، صحیفہ، لمبا



آرام لینا۔ قرار پکڑنا۔ پست ہونا۔

الطَّمْنُ - ساکن۔ جہ۔ طَمُونٌ۔
الْمُطْمَئِنُّ - ساکن۔ من الارض۔ پست زمین۔

كَلَّمَاطُ طَمُونًا وَطَمِي طَمِيًا طَمِيًا -
الماء - پانی کا بلند ہونا اور نہر کو بھر دینا۔ البحر - دریا کا چڑھنا۔ طغیان میں آنا۔ الغیب - پورے کا اونچا ہونا۔

طَمِنَ رَضًا وَطَمِنًا وَطَمِنٌ -
الزبائِبُ اوانا قوس و شبہ ذلک - بھینچنا۔ بجنا۔ آواز دینا۔

وَطَمِنَ فَلَاحٌ - مرنا۔
أَطَمَهُ - بجانا۔ پٹنی کا ٹنا۔

الطَّنُّ - انسان وغیرہ کا بدن۔ جہ۔ طَنَانٌ
وَأَطْنَانٌ - بانس کا گٹھا۔ واحد (طَنَّةٌ)

الطَّنَارُ - بہت بخنے والا۔ مشہور۔
الطَّنِي - بڑے ڈیل ڈول کا آدمی۔
طَنَارٌ (ف) طَنًا وَطَنِيٌّ (دس) طَنًا - شرم کرنا

حیا کرنا۔
أَطْنًا مائل ہونا۔ حَيَّةٌ لَا تَطْنِي - وہ

سانپ جس کا ڈسا ہوا اسی دم مر جائے۔
الطِنُّ - بقیہ روح۔ رُحی فَلَاحٌ رُحی

طَنِيعٌ - فلاں آدمی مر گیا۔ بجھی ہوئی ناکھ۔ خواہش نفسانی کی طرف میلان۔
بدکاری۔ بچھونا۔ فرش۔ فَلَاحٌ بَعِيدٌ

الطِنُّ - فلاں بڑی ہمت والا ہے۔
مکان۔ شک۔

طَبَنَ (دس) طَبْنًا - الموضع - نیزہ کا ٹیڑھا ہونا۔ الفرس - گھوڑے کا لمبی اور کمزور پیٹھ و ٹانگوں والا ہونا۔ صفت (أَطْبَنُ)

مؤنث طَبْنَاءٌ۔
طَبَبٌ - الخیمۃ - خیمہ لگانا۔ بالمکان - کسی جگہ اقامت کرنا۔ السبب - بھیڑیے کا بھونکنا۔ السقاء - مشک

میں پیوند لگانا۔

طَائِبٌ - القوم - قوم کے خیموں کی رسی کے ساتھ اپنے خیمہ کی رسی ملانا۔

أَطْنَبَ - الريح - ہوا کا غبار اٹھانا۔
الابل - بعض کا بعض کے پیچھے چلنا۔
فی الوصف او العدو - مبالغہ کرنا۔

تَطَانَبَ - القوم - خیموں کی رسیوں کو بعض کو بعض کی طرف کرنا۔

الطَّنِبُ - خیمہ کی لمبی رسی۔ جسم کا پٹھا۔
درخت کی جڑ۔ جہ۔ أَطْنَابٌ وَطَنْبَةٌ -

مَدَّتِ الشمسُ أَطْنَابَهَا - سورج نکل آیا۔ تَقَصَّبَتْ أَطْنَابُهَا - سورج ڈوب گیا۔ (د) وَالْأَطْنَابَةُ (کمان کا چلہ۔ جہ۔ أَطَانِيْبٌ - کہتے ہیں۔

”خيلٌ أَطَانِيْبٌ - یعنی بعض بعض کے پیچھے۔
الْمَطْنِبُ - گندھا۔ جہ۔ مَطَانِيْبٌ -

الْمُعْظِبُ - فا۔ ہر ایک کی تعریف کرنے والا۔
جَنِيْشٌ مَطْنَابٌ - جزار فوج۔
الطَّنْبُورُ وَالطَّنْبَارُ - ستار۔ جہ۔

طَنَابِيرٌ۔
طَنْبِلٌ - طَنْبَلَةٌ - الرجل - سمجھ کے بعد بیوقوف بننا۔

الطَنْبَلَةُ - شرفساد۔ الطَنْبَلُ - مسست کندہ بن۔ بیوقوف۔
الطَّنْبَجَةُ - تانبے کی دیگی۔ یا ہانڈی۔

الْمَطْنَجِيُّو - کڑا ہی۔ کنا یہ از بزدل یا کمینہ۔
طَنِجَمٌ (دس) طَنْجًا - بد معنی ہونا۔ دل پر چربی غالب ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت (طَنِجَمٌ

و طَانِجٌ)۔
طَنِجَتْ نَفْسُهُ - خبیث ہونا۔
أَطْنَحَهُ وَطَنْحَهُ - بد معنی کرنا۔ طَنِجَمٌ

من الليل - رات کا ایک حصہ۔
طَنْوَرٌ (دس) طَنْوًا - بہ۔ تسخیر کرنا۔
تَطَانَزَ - القوم - ایک دوسرے کے ساتھ

تسخیر کرنا۔

الطَّنَارُ - تسخیر کرنے والا۔
الطَّنْطَنَةُ - گلے کا کٹا۔

طَنْطَنَ طَنْطَنَةً - الجرس و الطنط والذباب و نحوها - گھنٹی کا بجنا۔
طننت کا آواز کرنا۔ کبھی کا بھینچنا۔

طَنْفٌ (دس) طَنْفًا - مہم ہونا۔ طَنْفَةٌ -
و طَنْوَةٌ وَ طَنْفًا - بد باطن ہونا۔
صفت (طَنْفٌ)

طَنْفُهُ - تہمت لگانا۔ طَنْفٌ الْجِدَارِ - دیوار پر کانٹے رکھنا۔ نَفْسُهُ اِلَى كَذَا - نفس کو طمع کے نزدیک کرنا۔

تَطَنَّفَ - القوم - قوم کے پاس پہنچ کر گھیر لینا۔
الطَّنْفُ وَالطَّنْفُ وَالطَّنْفُ وَالطَّنْفُ -
پھاڑ کی نکلی ہوئی چوٹی۔ جھجھر۔ کانس۔

مہتابی۔ جہ۔ طَنْوٌ وَ أَطْنَا ف -
الْمُطْنِفُ - جھجھیا کا کانس والا۔ پھاڑ کی چوٹی پر چڑھنے والا۔

طَنْفَسٌ - بد خلق ہونا۔ بہت کپڑے پہننا۔
الطَّنْفُسُ - ردی و بد شکل۔
الطَّنْفَسَةُ وَالطَّنْفَسَةُ - فرش، چٹائی

کپڑا۔ جہ۔ طَنْافِسُ -
الطَّنُو - بدکاری۔
الطَّنُو - فرش۔

کَلْبِيٌّ (دس) کَلْبِيٌّ وَ أَطْنِي - تلی یا پھسپڑے کا پہلو یا پسلیوں سے جھٹنا۔ صفت (کَلْبِيٌّ

وَ کَلْبِيٌّ) - فی فجورہ و فسَاد -
بدکاری و فساد میں ہمیشہ مبتلا رہنا۔
طَنِیٌّ، اللدیعُ مِنَ لَدَغِ الْعَقْرَبِ

بچھو کے ڈسنے کا اچھا ہوجانا۔
طَلِيٌّ - تلی یا پھسپڑے کی بیماری کا علاج کرنا۔

الطَّنِي - مصر۔ تہمت۔ بجھی ہوئی راگھ۔ بیماری۔
الطَّنِي - بدکاری۔ فساد۔
الطَّنِي - فا۔ زنا کار۔ جہ۔ طَنْاقٌ -



طَهَّرَ دَن، وَطَهَّرَ دَن، طَهَّرَا وَ
 طَهَّرُوا وَطَهَّرَةً. پاک ہونا صفت
 رکاوٹیں۔ ج۔ اَطَهَّرَ وَطَهَّرَ وَ
 رَكَّاهُ ج۔ طَهَّرَ دَن۔ طَهَّرَ
 الْيَتَاب۔ پاک دامن۔
 طَهَّرَهُ دَن، طَهَّرَ ا۔ دور کرنا۔ طَهَّرَهُ
 پاک دامن۔
 طَهَّرَهُ دَن، طَهَّرَ ا۔ دور کرنا۔ طَهَّرَهُ
 دور کرنا۔ طَهَّرَهُ ا۔ پاک کرنا۔
 طَهَّرَ الشَّيْءَ بِالمَاءِ۔ پانی سے دھونا۔
 تَطَهَّرَ وَطَهَّرَ۔ میں سے صاف ستھرا ہونا۔
 پاک ہونا۔ نہانا۔
 الاَطَهَارُ عورت کی پاکی کے دن۔
 الاَطَهْرُ جس سے پاکی حاصل کی جائے۔
 الطَّهْرَةُ۔ پاکی۔ صفائی۔ پانی سے نہانا۔
 المَطَهْرُ قیامت کے دن عذاب دینے کے
 بعد پاک کرنے کی جگہ۔
 المَطَهْرَةُ وَالْمَطَهْرَةُ۔ وضو وغیرہ کا لوٹا۔
 نہانے کا کمرہ کہتے ہیں "النِّسْوَالُ"
 مَطَهْرَةُ النَّفْسِ۔ کرمسواک منہ کی
 طہارت کا سبب ہے۔ ج۔ مَطَاهِرُ۔
 المَطَهْرَةُ۔ متعدی بیماری کے بیمار کے کپڑے
 صاف کرنے کا آلہ۔
 طَهَّرَ دَن، طَهَّرَ ا۔ فی الارض۔ زمین
 میں داخل ہونا اور گھسنا۔
 طَهَّشَ دَن، طَهَّشَا۔ العمل۔ کام
 خراب کرنا۔
 اَطَهَفَ۔ السقاء۔ مشک ڈھیلی ہو
 گئی۔ فی الکلام۔ روانی اور تیزی سے
 تقریر کرنا۔ يَفْلِدُن مِّنْ مَّارِلِه۔
 طَهْفَةُ۔ اپنے مال سے کچھ حصہ دینا۔
 الطَّهْفُ۔ بھوسہ۔ الطَّهْفُ۔ پناہ۔
 زَبَدَةُ طَهْفَةٍ۔ نرم کھن۔
 الطَّهْفَةُ۔ مِّنْ الشَّيْءِ۔ گھڑا۔
 الطَّهْفُ۔ مِّنْ السَّحَابِ۔ بلند بادل۔

الطَّهْفَةُ۔ گیسو۔
 طَهَّقَ دَن، طَهَّقَا۔ تیز چلنا۔
 طَهَّلَ وَطَهَّلَ دَن، طَهَّلَا وَطَهَّلُوا
 تَطَهَّلَ۔ الماء۔ پانی کا خراب ہونا۔
 صفت رکاوٹیں۔ کھل۔
 اَطَهَّلَتِ۔ الارض۔ زمین کا تھوڑی سی
 گھاس اگانا۔
 الطَّهْلَةُ۔ چیز کا بقیہ۔ تھوڑی سی گھاس۔
 طَهَّمْ۔ الشَّيْءَ۔ چیز کا موٹا ہونا۔
 تَطَهَّمْ۔ الطَّعَامُ۔ کھانے کو ناپسند کرنا۔
 المَطَهَّمُ۔ موٹا۔ خیف الجسم۔ ناتوان
 بدن۔ مکمل اور بہت خوشنما چیز۔
 طَهَّأَ يَطْهَأُ اَطْهَأُ۔ ملک میں پھرنا۔
 طَهَّأَ يَطْهَأُ وَيَطْهَأُ طَهَّأُ وَطَهَّأُ
 وَطَهَّأُ وَطَهَّأُ يَهَّأُ۔ اللحم۔
 گوشت کو پکانا یا بھونا۔
 طَهَّأَ اَطْهَأَ۔ صنعت میں ماہر ہونا۔
 الطَّهْرُ مِم۔ کام۔
 الطَّهْيُ۔ تنکا۔ الطَّهْيُ۔ گناہ۔ جرم۔ پکا ہوا۔
 الطَّهْيُ۔ سخت چوٹ۔ پتلا بادل۔
 الطَّهْيُ۔ فا۔ باورچی۔ بھوننے والا۔ انانبا
 بھٹیارا۔ ج۔ طَهَّأُ وَطَهَّأُ۔
 مَوْنُطَ طَهَّأُ۔ ج۔ طَهَّأُ وَطَهَّأُ
 طَاهِيَاتُ۔
 الطَّهْيَةُ۔ باورچی کا پیشہ۔ الطَّهْيَةُ۔
 دودھ یا خون کے اوپر کی جھلی۔
 الطَّهْيَةُ۔ بلند بادل۔
 طَهَّأَ يَطْهَأُ وَيَطْهَأُ طَهَّأُ ا۔ آنا جانا۔
 آمدورفت کرنا۔ فی الارض۔ ملک میں
 بہت دور نکل جانا۔
 طَهَّأَتْ تَطْهَأُ يَهَّأُ ا۔ الاسعارُ بھاؤ
 کا گراں ہونا۔
 الطَّهَّاتُ۔ کوٹان کیچڑ۔ چراگاہ میں دور
 نکل جانا۔ مَا فِي الدَّارِ طَهَّاتُ۔ گھر
 میں کوئی نہیں۔

الطُّوبُ۔ پکی اینٹ۔ واحد طُوبَةٌ
 الطُّوَابُ۔ اینٹ بنانے والا۔
 طَاحَ يَطُوْحُ طَوْحًا۔ حیران ہونا۔ ہلاکت
 کے نزدیک پہنچنا۔ السَّهْمُ۔ تیر کا
 نشانہ سے چوکنا۔
 طَوَّحَ۔ حیران کرنا۔ آوارہ پھرنا۔
 طَوَّحَ۔ بہ۔ خطرناک امور پر اگسنا۔ ہوا
 میں پھینکنا۔
 طَوَّحَتْ بِهِ طَوَائِحُ الزَّمَنِ۔ حوادث
 زمانہ نے اس کو پھینک دیا۔ طَوَّحَ
 تَطَوَّحًا وَطَهَّحَ تَطَهَّحًا۔
 الشَّيْءَ۔ ضائع کرنا۔
 طَاوَحَ مَطَاوَحَةً۔ بکذا۔ ایک دوسرے
 کی طرف پھینکنا۔
 اَطَّاحَ۔ ہلاک کرنا۔ تباہ کرنا۔ اَطَّاحَ۔
 الشَّعْرَ۔ بال گرانا۔
 تَطَوَّحَ۔ فی البلاد۔ اپنے آپ کو ملکوں میں
 پھینک دینا۔ یعنی لمبا سفر کرنا۔ فی
 البئر۔ کنوئیں میں گرنا۔
 تَطَاوَحَ تَطَاوَحًا۔ القومُ فُلَانًا۔
 بالامیر اور البغیر۔ باہم تنازع کرنا
 "تَطَاوَحَتْ بِهِ النُّوَى" اس کو
 دوری نے پھینک دیا۔ یعنی اس نے
 مختلف ملکوں میں لمبا سفر کیا۔
 الطَّوْحُ۔ دور۔ زَبَّةُ طَوْحُ۔ دور کی نیت۔
 الطَّوَائِحُ۔ قسمت کے حادثات۔
 المَطَاوَحُ۔ ہلاکت کی جگہیں۔ واحد
 مَطَاوَحَةٌ۔
 المَطَوَّاحُ۔ لالچی۔
 طَاخَهُ يَطُوْحُهُ طَوْحًا۔ کسی کو گالی دینا۔
 یا کسی کی برائی کرنا۔ صفت دَطَوَّاحُ
 طَاذَ يَطُوْدُ طَوْدًا۔ ثابت قدم رہنا۔
 طَوَّدَ وَتَطَوَّدَ۔ فی البلاد۔ ملکوں میں
 پھرنا۔
 اَطَّادَ۔ ہوا میں بلند ہونا۔

الطَّوْدُ - مع۔ بڑا ٹیلہ۔ ج۔ اَطْوَادٌ و طَوْدَةٌ۔

التَّطَوُّدُ - گھومنا۔ پھرنا۔

المَطَادَةُ - ترقی و قیام۔

المَطَاوِدُ - خطرناک جگہیں۔

المُنْطَادُ - بلند، عمارت۔ بیلون۔ ج۔

مَنْطِيطٌ۔

طَارَ يَطُورُ طَوْرًا وَطَوْرَانًا - بفلان

قریب و نزدیک ہونا۔

الطُّورُ - مع۔ اندازہ۔ حد۔ ہیئت۔ حال۔

باری۔ "أَتَيْتُهُ طَوْرًا بَعْدَ طَوْرٍ"

میں اس کے پاس بار بار آیا۔ ج۔

أَطْوَارُ - "النَّاسُ أَطْوَارُ" آدمی کئی

قسم کے ہیں۔ مختلف حالات کے ہیں۔

الطُّورُ - پہاڑ۔ گھر کا صحن، مقابل کی چیز۔

مثل۔

الطُّورُ - مقابل کی چیز، مثل (والطُّورُ)

گھر کا صحن۔

الطُّورِيُّ وَالطُّورَانِيُّ - وحشی، اجنبی۔

"مَا بَالُكَ اِرْطُورِيٌّ" گھر میں کوئی نہیں

طَارَةُ الْمُنْخَلِ - پھنی کا گھیرا۔

الطَّارَةُ وَالطَّارُوفُ - کہتے ہیں "لَقِيَ

مِنْهُ الْاُطُورَيْنِ" اس کو اس سے

بڑی مصیبت پہنچی۔

طَاسٌ يَطُوسُ طَوْسًا - (الوجه) چہرہ

کا خوبصورت ہونا۔ الشیء - رونڈنا۔

طَوْسَهُ - زینت دینا۔ طَوْسُ الْمُصَوِّرِ -

تصویر کش کا مور کی شکل بنانا۔ طَوْسُ

بلہ۔ لے جانا۔

تَطَوَّسَ - اِلْحَمَامَةِ - کبوتری کے آگے

پروں کو پھیلانا۔ تَطَوَّسَتِ الْمَرْءَةُ

عورت کا آراستہ ہونا۔

الطُّوسُ - مع۔ چاند۔

الطُّوسُ - ایک دست آورد۔

الطَّاسُ - پینے کا برتن۔ ج۔ طَاسَاتُ۔

الطَّائِدُ وَالطَّائِدَةُ - مع۔ ج۔ اَطْوَأْسُ وَطَوَائِمُ۔

طَوَّشَ - الرجلُ - مفرض کا ٹال مٹول کرنا۔

الذَّكْرُ - آخرت کرنا۔

الطَّوَائِشُ - آخرت، خفی کیا ہوا۔ ج۔

طَوَائِشِيَّةٌ۔

طَاعَ يَطُوعُ يَطَاعٌ طَوْعًا - يَفْلَانِ -

تابع داری کرنا۔ فرمانبردار ہونا۔ صفت

رطایعہ ج۔ طَوْعٌ وَطَائِعُونَ -

"طَاعَ لَهُ الْمَرْءُ" چراگاہ اس

کے لیے وسیع ہے۔

طَوَّعَهُ - تابع دار بنانا۔ لُكْ - آسان کرنا

اجازت دینا۔

طَاوَعَهُ مَطَاوَعَةً - فی الامر و

علیہ۔ اتفاق کرنا۔

أَطَاعَهُ إِطَاعَةً وَطَاعَةً - فرمانبردار

ہونا۔ أَطَاعَ الشَّجَرُ - درخت کے

پھل پکنا۔

إِطَاعَ اِلْطَوِيَّاتَا - لُكْ - تابع و فرمان

بردار ہونا۔

تَطَوَّعَ - بتکلف اطاعت کرنا۔ تَطَوَّعَ

فِي الْجُنْدِيَّةِ - فوج میں واثق ہونا۔

لشکر میں رضا کارانہ کام کرنا۔ بالشیء

تبرع کرنا۔ مذہبی کام میں کسی چیز کا

عطیہ دینا۔ بالشیء و للشیء - بتکلف

استطاعت ظاہر کرنا۔

تَطَاوَعَ - لِلْأَمْرِ - بتکلف استطاعت

ظاہر کرنا۔

اِسْتِطَاعَ اِسْتِطَاعَةً - الامر -

طاقت رکھنا۔ لائق ہونا۔

الطَّوَائِعِيَّةُ - طاعت فرمانبرداری۔

الطَّاعُ اَوِ الطَّوْعُ وَالطَّيْعُ - مطیع۔ فرمان

بردار کہتے ہیں "هُوَ طَوْعٌ يَدِيكُ"

وہ آپ کا تابع ہے۔ و فرس طَوْعُ

البعثان۔ گھوڑا تابع دار اور سدھا ہوا

ہے۔ عَمَلَهُ طَوْعًا - اس نے اس کام

کو بخوشی کیا۔

الْمُطَوَّعُ وَالْمُطَوَّاعَةُ - تابع دار۔

فرمان بردار۔

الْمُطَوَّعَةُ - جہاد میں اپنے آپ کو رضا کارانہ

شامل کرنے والا۔ والنثیر۔

الْمُتَطَوِّعُ وَالْمُتَطَوِّعَةُ - واجبات و فرائض

کے علاوہ اور اعمال صالحہ کو بطور نفل

ادا کرنے والا۔

طَافَ يَطُوفُ طَوْفًا وَطَوْفَانًا

- بالسكان وحوکہ۔ چاروں طرف

گھومنا۔ چکر لگانا۔ فی البلاد ملک

میں پھرنا۔

طَوَّفَ وَتَطَوَّفَ اِسْتِطَافَةً وَ

اِسْتِنَافًا - بالشیء وحوکہ۔ چکر

بہت لگانا۔ طَوَّفَ النَّاسُ اَو

الْجَوَادُ - آدمیوں یا گھوڑوں کا زمین

پر چھا جانا۔

أَطَافَ - بالشیء - نازل ہونا۔ احاطہ کرنا۔

قریب ہونا۔ علیہ بلہ۔ رات کو

آنا۔ علیہ۔ ارد گرد گھومنا۔

الطُّوفُ - پانی پر تیرنے والی چیز۔ پھولی

ہوئی مشکوں یا شہتیروں کو جوڑ کر

سواری یا بار برداری کے لیے بنائی ہوئی

کشتی۔

الطُّوفُ - رات کو پہرہ دینے والے چوکیدار۔

چوکیدار۔ دیوار۔ ج۔ اَطْوَافُ۔

الطَّافُ - بہت زیادہ چکر لگانے والا۔

الطُّوفَانُ - سخت بارش، سخت سیلاب۔

رات کا سخت اندھیرا تباہ کن موت۔

ہر ایک چیز کی کثرت۔

الطَّائِفُ - فا۔ چوکیدار۔

الطَّائِفَةُ - مَوْنَتُ الطَّائِفِ - لوگوں کی

جماعت۔ چیز کا ٹکڑا۔ ایک رائے و

مذہب کے لوگ۔ ج۔ طَائِفَاتُ و

طَوَائِفُ۔

الطَوَّافُ: بہت پھرنے والا۔ بہت چکر لگانے والا۔ خادم۔

المَطَّافُ: چکر لگانے کی جگہ۔

حَاقٌ - يَطْوِقُ طَوْقًا وَطَاقَةً وَ

أَطَاقَ - الشَّيْءُ: چیز پر قادر ہونا۔

طَوْقُهُ - الشَّيْءُ: کسی کام کی تکلیف دینا۔ طَوْقُهُ الطَوْقُ: طوق پہنانا۔

أَطْوَقَ وَتَطَوَّقَ: طوق پہنانا۔ تَطَوَّقَتِ

الْحَيَّةُ: سانپ کا کندلی مارنا۔

الطَّاقُ: محراب۔ طاقت۔ طاقت۔ طَاقَاتٌ

وَطَيْقَانٌ۔

الطَّاقُ: ایک قسم کا کرتہ۔ د۔ والطَّائِقُ

پھاڑ کی نکلی ہوئی چٹان۔ احاطہ کرنے

والا۔ گھیرا۔

الطَّوْقُ: گلے کا ایک زیور ہر احاطہ کرنے

والی چیز۔ ج۔ أَطْوَاقٌ۔

الطَّوْقُ وَالطَّاقَةُ: قدرت۔ طاقت۔

وہاگے کی ایک لٹ۔ بالوں کا مٹھا۔

پھولوں کا گلدستہ۔

الْمَطْوَقَةُ: کتھڑی دار کبوتر۔ بڑی بوتل۔

جس کی طوق دار گردن ہو۔

طَالٌ يَطْوُلُ طَوْلًا: دراز و لمبا ہونا۔

علیہ۔ غالب ہونا۔ فخر کرنا۔ احسان کرنا۔

طَوْلُهُ: لمبا کرنا۔ طَوْلٌ لَهُ: ہمت دینا۔

رِلْدًا آتِيَةً: چرنے کے لیے جانور کی

رسی ڈھیلی کر دینا۔

تَطَوَّلَ تَطَوُّلاً: علیہ۔ احسان کرنا۔

أَطَالَهُ وَأَطْوَلَهُ وَأَطَالَهُ وَأَطْوَلَهُ:

لمبا کرنا۔ أَطَالَتِ الْمَرْأَةُ: دراز

قامت بچہ جنتا۔

طَاوَلَهُ مَطَاوَلَةً: طال مٹول کرنا۔ لمبائی یا

فضل و احسان میں غالب آنا۔

تَطَاوَلَ: دور کی چیز کی طرف گرون بلند کر

کے دیکھنا۔ تکبر کرنا۔ فخر کرنا۔ ظلم کرنا۔

لمبائی ظاہر کرنا۔ علیہ العُمر: بڑھنا

تَطَاوَلَا: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔

اسْتَطَالَ اسْتَطَالَةً: لمبا ہونا۔ فضل و

احسان کرنا۔

الطَّوْلُ: فضل بخشش۔ قدرت۔ غنا۔

الطَّوْلُ: مہم۔ لمبائی (چوڑائی کے مقابلہ

میں) درازی (کوئی شے کی ضد)۔ ج۔

أَطْوَالُ۔

الطَّوْلُ: عمر۔ زمانہ کی لمبائی۔

الطَّوْلُ: لمبی ٹانگوں کا ایک آبی پرندہ۔

الطَّيْلُ وَالطَّوْلُ وَالطَّوَالُ وَالطَّيَالُ

لمبا عرصہ۔ زمانہ کی لمبائی۔

الطَّائِلُ وَالطَّائِلَةُ: قدرت۔ فضل۔

غنا۔ کہتے ہیں: بَيْنَهُمَا طَائِلَةٌ۔

ان کے درمیان عداوت ہے۔ ج۔

طَوَائِلُ: هَذَا الْأَمْرُ لَا طَائِلَ

فِيهِ۔ اس امر میں کوئی فائدہ نہیں۔

الطَّوِيلُ: لمبا۔ ج۔ طَوَالٌ وَطَيَالٌ۔

مُؤَنَّتٌ طَوِيلَةٌ: ج۔ طَوِيلَاتٌ۔

”فَلَانٌ طَوِيلٌ أَبَاعَ“: فداں

سخی ہے۔ ”هُوَ قَصِيرٌ أَبَاعَ“: وہ

بخیل ہے۔

الْأَطْوَلُ: اسم تفضیل۔ ج۔ أَطْوَالُ مُؤَنَّتٌ

طَوِيٌّ: ج۔ طَوِيلٌ۔ الطَّوِيلُ: بلند

مرتبہ۔ وَالسَّيْعُ الطَّوَالُ: قرآن پاک

سات بڑی سورتیں۔

الطَّوَالُ: لمبا۔ مُؤَنَّتٌ طَوَالَةٌ۔

الطَّوَالُ: بہت لمبا۔

الْمَطْوُولُ: رسی۔ لگام۔ جانور کا رستہ۔

ج۔ مَطَاوِلُ۔

طَوِيٌّ يَطْوِي طَوِيًّا: الثوب: کپڑا پھیٹنا۔

اللَّهُ عُمَرُهُ: موت دینا۔ کہتے

ہیں: طَوِيٌّ فَلَانٌ وَهُوَ مُنْشَوْرٌ

جب کسی کا اچھا نام اور ذکر حسن باقی

رہے۔ طَوِيٌّ الْحَدِيثُ: بات چھپانا

۔ كَشَحَهُ عَلَى الْأَمْرِ: کوئی امر

چھپانا۔ طَوِيٌّ كَشَحَهُ عَنِّي: اس

نے مجھ سے پھلوتی کی۔ اس نے مجھ سے

منہ پھیر لیا۔ طَوِيٌّ الْبِلَادُ: ملک طے

کرنا۔ الْبَيْتُ: پتھروں سے کنواں

بنانا۔ طَوِيٌّ الرَّجُلُ: بھوکا رہنے کا

ارادہ کرنا۔ السَّيْرُ فَلَانًا: لاغر کرنا۔

طَوِيٌّ يَطْوِي طَوِيًّا وَأَطْوِي: بھوکا

ہونا۔ صفت (طَيَّانٌ)

طَوِيٌّ وَطَوِيٌّ: مُؤَنَّتٌ طَوِيًّا وَطَوِيَّةٌ وَ

طَوِيَّةٌ۔

تَطَوَّتِ الْحَيَّةُ: سانپ کا کندلی مارنا۔

انْطَوَى: الْقَوْمُ عَلَيْهِ: کسی کے گرد جمع

ہونا۔ د۔ وَاطْوَى: لپیٹا جانا۔

الطَّوِي: بھوک۔ مشک۔

الطَّوِي وَالطَّوِي: لپیٹی ہوئی چیز۔

الطَّوِي: مہم۔ ضمن۔ پیٹ۔

الطَّيَّة: حاجت۔ ضرورت۔ ضمیر۔ نیت۔

لپیٹنے کی شکل چھت۔ گوشہ۔ ”لَقِيتُهُ

بِطَيَّاتِ الْعَوَاقِ“: میں نے اس سے

عراق کے اطراف میں ملاقات کی۔

طَاوَى الْبَطْنُ: پٹے پیٹ والا۔

الطَّايَّة: چھت۔ ج۔ طَايَاتُ۔

الطَّوِي: گھوڑی گھڑی۔ رات کی گھڑی۔

ج۔ الْأَطْوَاءُ: د۔ وَالطَّوِيَّةُ: پتھروں

سے چنا ہوا کنواں۔

الطَّوِيَّة: نیت۔ ضمیر۔

الْمَطْوِي: وَا مَدَّ مَطَاوِي: پیٹ۔

مَطَاوِي الْحَيَّةُ: سانپ کی کندلی۔

مَطَاوِي الْأَمْعَاءِ: آنتوں کا حلقہ

یا کندلی۔

الْمَطْوِي: جس پر کتا ہوا سوت لپیٹا جائے۔

طَابَ يَطِيبُ طَيِّبًا وَطَابًا وَطَيِّبَةً وَ

طَيِّبًا بَأً: مزیدار۔ میٹھا۔ عمدہ ہونا۔

”طَابَتِ النَّفْسُ بَكْدًا“: اس کا دل

اس سے خوش ہونا۔ طَابَ عَيْشُهُ:



خوش گذران ہونا۔ عَنِ الشَّيْءِ
نَفْسًا۔ خوشی سے چھوڑ دینا۔ طَابَتْ
الارضُ۔ زمین کا گھاس اگانا۔
طَيِّبٌ۔ الشَّيْءُ۔ اچھا بنانا یا پانا۔ خوشبو
لگانا۔ طَيِّبٌ خَاطِرُهُ کسی کے دل
کو تسلی دینا۔ مطمئن کرنا۔
أَكَابَ إِطَابَةً۔ الشَّيْءُ۔ اچھا کرنا۔ اچھا
شیریں کلام کرنا۔
أَطِيبَ أَطْيَابًا۔ الشَّيْءُ۔ اچھا پانا۔
طَابَتْهُ مَطَابَةً۔ مٹھٹھ کرنا۔ مذاق کرنا
کھینا۔
اِسْتَطَابَ اِسْتِطَابَةً۔ القَوْمَ۔ میٹھا
پانی مانگنا۔ دَوَّ اِسْتِطَابَةً اِسْتِطَابًا،
الشَّيْءُ۔ اچھا پانا۔
الطَّابُ۔ مَم۔ لذیذ۔ مزیدار۔
الطَّيِّبُ۔ مَم۔ خوشبو۔ ج۔ أَطْيَابٌ و
طُيُوبٌ۔ حلال، بہترین چیز۔
الطَّابَةُ۔ شَرَاب۔
الطَّيْبَةُ۔ مَم۔ حلال، طَيِّبَةُ الْخَمْرِ۔
صاف شراب۔ "فَعَلْتُ ذَلِكَ
بِطَبِيَّةٍ" یہ میں نے اپنی خوشی سے کیا۔
الطَّيِّبُ۔ بہت پاکیزہ۔ الاطیبُ۔ زیادہ
اچھا۔ ج۔ أَطْيَابٌ۔ مؤنث طُوبَى۔
ج۔ طُوبَيَاتٌ۔
الطُّوبَى۔ رُشک، سعادت، خیر، بہتری۔
الطَّيِّبُ۔ پاکیزہ، اچھا، حلال، مؤنث۔
طَبِيَّةٌ۔ ج۔ طَبَيَاتٌ و طُوبَى۔
بَلَدَةٌ طَبِيَّةٌ۔ امن اور برکتوں والا شہر۔
الْأَطْيَابُ وَالْمَطَابُ۔ مِنَ الشَّيْءِ۔
نہایت عمدہ اشیاء۔
طَاخَ يَطِيخُ طِيخًا۔ گمراہ ہونا، تباہ ہونا۔
سرگرداں ہونا۔
طَيَّحَ۔ تباہ کرنا، گم کرنا، ضائع کرنا۔
آوارہ کرنا۔
أَطَاخَهُ۔ ہلاک کرنا، طَيَّحَ۔ الشَّيْءُ۔ بکھڑا

طَاخَ يَطِيخُ طِيخًا۔ گمراہ ہونا، تباہ ہونا۔
باطل میں منہمک ہونا۔ الامر۔ کام
خراب ہونا۔
طَاخَهُ وَطَيَّحَهُ۔ لتھیڑا۔ برائی سے
آلودہ کرنا۔ طَيَّحَ أَصْحَابَهُ۔ گالی دینا۔
تَطَيَّحَ۔ برائی سے آلودہ ہونا۔
الطَّيْحَةُ۔ فتنہ۔ ر۔ وَالطَّايْحُ وَالطَّيَاخُ
بے وقوف۔ بے برکت۔
طَارَ يَطِيرُ طَيْرًا و طَيْرًا و طَيْرُورَةً
۔ الطَّائِرُ۔ پرندہ کا اڑنا۔ صَيْتُهُ
شہرت پھیلنا۔ الشَّعْرُ۔ دراز و لمبا
ہونا۔ بکڈا۔ سابق ہونا۔ اِلَى كَذَا
دوڑنا۔ "طَارَ طَائِرُهُ" غضبناک
ہونا۔ طیش میں آکر جلد بازی کرنا۔
طَائِرَةٌ۔ و طَائِرِيَّةٌ و أَطَارَةٌ و
أَطَارَةٌ و طَائِدَةٌ مَطَائِدَةٌ۔
الطَّائِرُ۔
أَطَارَ و طَائَرَ۔ المالَ۔ مال تقسیم کرنا۔
طَائِرٌ نَوْمَةٌ۔ نیند اڑا دینا۔
أَطَائِرٌ و طَائِرٌ۔ بالشَّيْءِ و مِنْهُ۔ بدفالی
لینا۔ برا شگون لینا۔
تَطَائِرَ۔ متفرق ہونا۔ الشَّيْءُ۔ دلا دھونا۔
السَّحَابُ فِي السَّمَاءِ۔ بادل کا سب
طرف پھیل جانا۔
إِنطَارَ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کا پھٹنا۔
اِسْتَطَارَ اِسْتِطَارَةً۔ الشَّيْءُ۔ متفرق
ہونا۔ الحَاظُ۔ دیوار کا پھٹنا۔ بڑھنا۔
السَّيْفُ۔ جلدی سے تلوار نکالنا۔
الطَّيْرُ۔ پرندہ اڑانا۔
اِسْتُطِيرَ۔ خوف زدہ ہونا۔ جلدی سے
لے جانا۔ الصَّدْعُ فِي الْحَاظِ۔
دیوار میں دراڑ کا ظاہر ہونا۔ الفرسُ
گھوڑے کا دوڑنا۔
الطَّائِرُ۔ ف۔ پرندہ۔ ج۔ طَائِرٌ و طَيْرٌ و
أَطْيَارٌ۔ ایک ستارہ جس سے اچھا

برا شگون لیں۔ نصیب، انسان کی روزی
دماغ۔ "هُوَ مَيِّمُونَ الطَّائِرُ" وہ
مبارک چہرے والے۔ "يَسُرُّ عَلَى
الطَّائِرِ الْمَيِّمُونَ" مبارک شگون پر
چل (مسافر کے لیے دعا ہے) ساریں
الطَّائِرُ۔ بردبار، تحمل آدمی، سنجیدہ۔
الطَّيْرُ وَالطَّيْرَةُ وَالطَّيْرُورَةُ۔ طیش
بلکاپن۔
الطَّيْرَةُ وَالطَّيْرَةُ۔ بدفالی لینے کی چیز۔
الطَّوِيرُ۔ طبع کی تصغیر۔
الطَّيَّارُ۔ منتشر۔ ترازو کی زبان۔ روپے
تولنے کی ترازو۔ الطَّيَّارُ وَالْمَطَّارُ۔
مِنَ النِّخِيلِ۔ چست، چالاک، تیز
خاطر گھوڑا۔ اَرْضُ مَطَّارَةٌ۔ بہت
پرندوں والی زمین۔
الطَّيَّارَةُ۔ مؤنث طَيَّار۔ ہوائی جہاز۔
الطَّارُ۔ اڑنے کی جگہ۔
المُطَيَّرُ۔ مفع۔ پھٹا ہوا۔ ٹوٹا ہوا۔ ایک
قسم کی چادر۔
المُسْتَطِيرُ۔ ف۔ پھیلنے والا۔
طَاسٌ يَطِيئُ طَيْسًا۔ الشَّيْءُ۔ زیادہ ہونا
الطَّيْسُ۔ بڑی تعداد میں۔ ہر ایک زیادہ
نسل کی چیز جیسے مچھلی، چیمونٹی وغیرہ۔
طَاشٌ يَطِيئُ طَيْشًا۔ اوجھا ہونا۔ عقل
کھونا۔ تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ صفت
(طَائِشٌ)
أَطَاشٌ اِطَاشَةً۔ تیر کا نشانہ سے خطا
کرا دینا۔
الطَّيَّاشُ وَالطَّائِشُ۔ جو عقل کی کمزوری
کی وجہ سے ایک طریقہ پر نہ جھے۔
الطَّيَّاشَانُ۔ ہلاکاپن۔ اوجھا پین۔
طَاعَ يَطِيعُ طِيعًا۔ بمعنى طَاعَ يَطُوعُ
طُوعًا۔
كَافَ يَطُوفُ طِيفًا و مَطَافًا۔ الْخَيَالُ
خیال کا خواب میں آنا۔



كَأَيِّفَ تَطْيِيفًا وَآطَافَ إِطَافَةٍ وَ
تَطْيِيفَ تَطْيِيفًا - بت چکر لگانا۔
الطيف - مص - خواب میں آنے والا خیال۔
جنون۔
الطيف - رات کی تاریکی۔
كَلَامٌ يَطِيئُ طَيْمًا - اچھے عمل والا ہونا۔
اللَّهُ فَلَائِي عَلَى الْخَيْرِ - خدا تعالیٰ
نے اس کو نیک پیدا کیا ہے۔

طَانٌ يَطِينُ طَانًا وَطِينٌ - الحارِطُ۔
دیوار کو گارے سے لیپنا۔
طَانٌ - اکتاب - تحریر پر مہر لگا دینا۔
طَانَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَيْرِ - خدا نے
اس کو نیک پیدا کیا۔
تَطِينٌ - گارے سے لیپا جانا۔ گارے سے بھڑنا
الطِينُ وَالطِينَةُ - گارا۔ ریت و پانی سے
ملا ہوا چرنہ۔ گیلی مٹی۔

الطِينَةُ - گارے کی مٹھی۔ نیچر۔ فطرت۔
يَا بَيْسُ الطِينَةِ - سخت مزاج۔ لکھ
طِينَةُ طِينَةٍ - اس کی طبیعت نرم
ہے۔ مَكانٌ طَانٌ - بہت گارے
والی جگہ۔
الطِيَانَةُ - گارا بنانے کا پیشہ۔
الطِيَانُ - گارا بنانے والا۔

ظ

ظَابٌ رَفٌّ ظَانًا - نکاح کرنا۔ ظلم کرنا۔
شور کرنا۔ بکری کا میں کرنا۔
ظَاءٌ بِهِ مَطَاءٌ بَهَّةٌ - سالی سے شادی
کرنا۔
تَطَاءٌ بَا - ہم زلف ہونا۔
الظَّابُّ - مص - ہم زلف۔ ساڑھو۔ ج
ظَوُّوبٌ وَظَوُّوبٌ -
ظَارٌ رَفٌّ ظَارًا وَظَانًا وَظَارًا
وَظَارًا وَظَارًا - مَطَاءٌ رَهَّةٌ -
النَّاقَةُ أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى وَكْدٍ
غیر بھا۔ مہربان کرانا۔
تَطَاءَرَتْ وَانْقَارَتْ - مہربان ہونا۔
صفت دُظُورٌ وَظُورٌ - ج
أُظَارٌ وَظُورٌ - ظَارَةٌ إِلَى
کذا۔ مہربان کرانا۔ ظَارٌ عَلَى
عَدُوٍّ - اپنے دشمن پر حملہ کرنا۔
ظَارَةٌ وَظَارَةٌ وَأُظَارَةٌ - ظَارَةٌ عَلَى
کذا۔ مہربان کرنا۔ ظَارَةٌ عَلَى
الامير - طلب کرنا یا مجبور کرنا۔ ظَارَتْ
الوجل - دایہ بنانا۔ ظَارَتْ
المرأة - عورت کا دایہ بننا۔
دوسرے کے بچہ کی پرورش کرنا۔
رَظَارٌ - لَوْدِيہ ظُورًا - اپنے بچے

کے لیے دایہ رکھنا۔
الظُّورُ - دایہ۔ انا۔ ج۔ اُظُورٌ - و
أُظَارٌ وَظُورٌ وَظُورٌ وَظُورٌ
ظُورٌ - ظُورٌ الْقَصِيرُ - محل کا
ستون۔
الظُّورَةُ - بھونی۔ کھبا۔
الظُّورَةُ - دایہ۔ دودھ پلانے والی۔
ظَاءٌ مَهْمَةٌ مَطَاءٌ مَهْمَةٌ وَظَاءٌ مَهْمَةٌ
تَطَاءٌ مَهْمَةٌ - ہم زلف ہونا۔
الظَّامُ - ہم زلف۔ ساڑھو۔
الظُّبَةُ - تلوار کی دھار۔ ج۔ ظُبَاتٌ -
و ظُبِيٌّ وَظُبُونٌ وَظُبُونٌ
أُظِبٌ -
أُظِبِيٌّ - المکان۔ ہرن زیادہ ہونا۔
الظُّبِيٌّ - ہرن۔ ہرنی۔ ج۔ ظُبَاءٌ - و
أُظِبٌ وَظُبِيٌّ وَظُبِيَّاتٌ - عرب
کہتے ہیں "بہ داء الظُّبِي" یعنی اسے
کوئی بیماری نہیں کہتے ہیں "إِذَا أَتَيْتَهُمْ
فَارْبِعِي فِي دَارِهِمْ ظُبِيًّا" یعنی
ان کے ہاں ہرن کی طرح نہ بھڑنا کہ وہ
شک کے مواقع میں نہیں رکتا۔
الظُّبِيَّةُ - ہرنی۔ گائے۔ بکری۔ ج۔
ظُبَاءٌ وَظُبِيَّاتٌ - الظُّبِيَّةُ - وادی

کا موڑ۔ ہرن کے بال دار چمڑے کا چھوٹا
بھیلہ۔ اَرْضٌ مَظْبَاتٌ - بہت ہرنوں
والی زمین۔
ظُرُونٌ مَظْرُوءَةٌ - دھار دار پتھر توڑنا۔
النَّاقَةُ - اونٹنی کو دھار دار پتھر سے
ذبح کرنا۔
أُظِرٌ - دھار دار پتھروں والی زمین میں آنا۔
جگہ کا دھار دار پتھروں والی ہونا۔
الظُّورُ وَالظُّورُ وَالظُّورَةُ - پتھر۔ دھار
دار پتھر۔ ج۔ ظُرَانٌ وَظُرَانٌ وَ
ظُرَارٌ وَأُظِرَةٌ - الظُّرَانُ - چھتاق
کے ٹکڑے جو زمانہ قدیم میں دیا سلائی
کی جگہ استعمال ہوتے تھے۔
اَرْضٌ ظُرِيرٌ وَمَظْرُوءَةٌ - بہت چھتاق والی
زمین۔ الظُّورِيٌّ - راستہ دکھانے
کے لیے نشان۔ ج۔ ظُرَارٌ وَأُظِرَةٌ
و ظُرَانٌ -
الْمَظْرُوءَةُ - چھتاق۔ ج۔ مَظَارٌ -
ظُرِبَ (س) ظُرْبًا - بکذا۔ چٹنا۔
الظُّرْبُ - ابھرا ہوا تیز پتھر۔ چھوٹا ٹیلہ۔ ج
ظُرَابٌ وَأُظِرٌ -
الظُّرْبُ - پست قدم ٹا آدھی۔
الظُّرْبَانُ وَالظُّرْبَاءُ - بلی کی طرح کا

ایک بدبودار جانور۔ اود بلاؤ۔ ج۔
ظُرَابُیُّ وَظُرَابِیُّنُ کہتے ہیں کسا
بَیْنَهُمُ الظُّرَبَانِ ان میں نا اتفاق
پڑ گئی

الْأُطْرُبُ۔ نواخذ کے پیچھے جا روانہ۔
أُطْرَابُ الْحَیَامِ۔ نگام کی گریں۔
ظُرُوفُ دَلَّ، ظُرُوفًا وَظُرُوفَةً۔ دانا اور
خوش شکل ہونا۔ ذہین ہونا۔ ماہر ہونا
صفت (ظریف) ج۔ ظُرْفَاءُ وَ
ظُرُوفَاتُ وَظُرُوفٌ وَظُرُوفٌ وَ
ظُرُوفٌ مَوْنٌ ظُرُوفَةٌ۔ ج۔
ظُرُوفَاتُ وَظُرُوفَاتُ

أُطْرُوفٌ۔ خوب صورت ذہین بچوں والا ہونا
برتن بنانا۔
تَظَرُّوفٌ وَتَظَارُوفٌ۔ تکلف دانا و
زیرک ہونا۔ بناوٹ سے خوبصورت
بننا۔

اِسْتِظْرُوفٌ۔ ظریف طلب کرنا۔ ظریف
سمجھنا۔ ظریف پانا۔
الظُرُوفُ۔ مہم۔ دانائی، عمارت۔ فوقیت،
برتن، ہر چیز کا مکان۔ عوام مشکیزہ کے
معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ هُوَ
نَقِیُّ الظُّرُوفِ وہ امین و وفادار ہے
"رَأَيْتُكَ بِظُرُوفِي" میں نے اسی کو
دیکھا ہے۔

الظُّرَافُ وَالظُّرَافَاتُ۔ ظریف۔ ج۔
ظُرْفَاءُ وَظُرُوفُونَ۔
الْمُظْرُوفُ۔ مفع۔ برتن میں سمائی ہوئی چیز۔
ظُرَى رَضٍ، ظُرِيًّا۔ الماء۔ پانی کا
جاری ہونا۔

ظُرَى دَسَ، ظُرَى۔ الغلام۔ لڑکے کا
زیرک ہونا
اُظْرُوْدَى اُظْرُوْدَى۔ پیٹ پھولنا۔
الظَّارِی۔ خا۔ کاٹ کھانے والا۔
الظُّوْدَى زیرک، عملدہ۔ ظریف۔

ظَلَعَنَ رَنَ، ظَلَعْنَا وَظَلَعُونَا وَظَلَعْنَا۔
کوچ کرنا۔ روانہ ہونا۔

أَظْلَعَتْ۔ روانہ کرنا۔ اَظْلَعَنَ الْهُودَجُ۔
پاکی میں سوار ہونا۔

الظُّلَعَانُ وَالظُّلَعُونَ۔ ہودہ باندھنے
کی رسی۔

الظُّلْعُونُ وَالظُّلْعُونَةُ۔ پاکی اٹھانے والا
اونٹ۔ لد اونٹ۔ ج۔ ظُلْعُنُ۔

الظُّلْعِيَّةُ۔ ہودہ، پاکی۔ ج۔ ظَلْعَانُ وَ
ظُلْعُنُ وَظُلْعُنٌ وَجِبَ اَظْلَعَانُ وَ
ظُلْعَنَاتُ۔ ہودہ میں بیٹھی ہوئی عورت۔
عورت۔

الْمُظْلَعَانُ۔ مِنَ الْخَيْلِ وَالنَّوْصِي۔ نرم
رفتار گھوڑا یا اونٹنی۔

ظَلْعَرَةٌ، ظَلْعَرًا۔ چہرہ پر ناخن مارنا۔
ناخن توڑنا۔

ظَلْعَرٌ دَسَ، ظَلْعَرًا اِظْلَعَرُ۔ الْمَطْلُوبُ وَ
بہ علیحدہ۔ مقصد میں کامیاب ہونا۔
غالب ہونا۔ ظَلْعَرَتْ عَيْتُهُ۔ آنکھ کا
ناخن والی ہونا۔ آنکھ کی صفت۔

ظَلْعَرَةٌ۔
ظَلْعَرٌ کسی کی آنکھ میں ناخن ہونا۔ ایسا شخص
دَمَ ظَلْعَرُونَ ہے۔

ظَلْعَرَةٌ کسی کے لیے کامیابی کی دعا کرنا۔
ظَاهِرُ الشَّيْءِ کسی چیز میں ناخن چھوننا۔

الشَّوْبُ۔ کپڑے پر خوشبودار لگانا۔
الْبَجَلَةُ۔ چڑے کو ملنا۔ ظَلْعَرَةٌ وَ

أَظْلَعَرَةٌ بَعْدُ وَهِيَ دُشْمَنٌ پُرکامیاب
کرنا۔

اَظْفَرُ۔ غلاؤنا کسی کے چہرہ پر ناخن مارنا۔
تَظَاْفَرُ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کی مدد

کرنا۔
الظُّفَرُ وَالظُّفَرُ وَالظُّفَرُ ناخن۔ ج۔

أَظْفَارُ جَبَّ، أَظْفَارِيُّ۔ کہتے ہیں
"هَاتِنِي فِي الدَّارِ ظُفْرًا" گھر میں

کوئی نہیں رہا۔ رَجُلٌ مُقْلَسٌ الظُّفَرُ۔
کمزور آدمی بکسرا اُظْفَارُهُ فِي فُلَانٍ۔

یعنی غیبت کی۔
الظُّفَرُ وَالظُّفَرَةُ۔ ناخن، آنکھ کی ایک

بیماری۔
الظُّفَرُ وَالظُّفِيرُ وَالظُّفِيرُ۔

الْأَظْفَرُ۔ لمبے چوڑے ناخن والا۔
الْأَظْفَارُ ناخن کے مشابہ ایک خوشبودار

چیز داس کا واحد نہیں۔ اَظْفَارُ۔
الثوب۔ کپڑے کی سلٹیں۔

الْأَظْفَارُ۔ چھوٹے ستارے۔
السُّظْفَرُ وَالْمِظْفَارُ۔ ہر کام میں کامیاب

اور فتح مند۔
ظَلَّ دَسَ، ظَلَّوْ ظَلُّوْا۔ يَفْعَلُ كَذَا۔

ہمیشہ رہنا۔ ظَلَّ ظَلَالَةً۔ الیوم۔
دن کا سایہ دار ہونا۔ الشیء۔ چیز کا

لمبا ہونا۔
ظَلَّہُ۔ سایہ ڈالنا۔ ظَلَّ بِالسَّوْطِ۔ ڈرانے

کے لیے کوڑے کو بلانا۔
ظَلَّ۔ الیوم۔ دن کا سایہ دار ہونا۔ ؤ،

سایہ ڈالنا۔ اپنی پناہ میں لینا۔ نزدیک آنا۔
تَظَلَّلَ۔ بِالشَّجَرَةِ۔ درخت کے سایہ

میں بیٹھنا۔ مِنَ الشَّيْءِ۔ سایہ لینا۔
الْكُورُ۔ انگور کی شاخوں کا گنجان و گھٹنا

ہونا۔ الْعَبْيُونُ چشمہ کے پانی کا میچے بیٹھ
جانا۔ الشَّمْسُ۔ سورج کا بادلوں

میں چھپ جانا۔
الظِّلُّ۔ سایہ۔ ج۔ ظِلَّانُ وَظِلَّانُ وَ

ظِلْلُونُ، عِزَّتْ، آرام، آسودگی۔
الظِّلُّ مِنَ اللَّيْلِ۔ رات کی سیاہی

یا رات کا حصہ۔ مِنَ الْقَبِيْظِ۔ گرمی
کی شدت۔ مِنَ الثَّوْبِ۔ کپڑے کا

رُوان۔ ظِلُّ الشَّبَابِ أَوْ الشَّيْءِ۔
جوانی یا جاڑے کا شروع۔ آغاز۔ يَقَعِي

عِنْدِي ظِلُّ النَّهَارِ، وہ میرے پاس



سارے دن رہا۔ "هُوَ فِي ظِلِّهِ" وہ اس کی پناہ میں ہے۔ "فَلَانٌ يَبَارِي" ظِلٌّ رَأْسُهُ: فلاں تکبر کرتا ہے۔ مُلَاعِبٌ ظِلِّهِ اَوْحَاطُ ظِلِّهِ: ایک پرندے کا نام ہے۔ الخُلُلُ: پانی جو ہمیشہ درختوں کے سایہ میں رہے۔

الظَّلَّةُ: اسم مرۃ۔ اقامت۔ الخُلَّةُ: تنگ سائبان، ہر وہ شے جس کے ذریعہ سردی یا گرمی سے پناہ لیں۔ ہر سایہ دار جہ۔ ظُلٌّ وَظِلٌّ: الظِّلَانُ وَالظِّلَانُ وَالظِّلَّةُ: و الظِّلَالَةُ: ہر سایہ دار چیز جیسے بادل وغیرہ۔

الظِّلِيلُ: سایہ دار۔ ہمیشہ سایہ والا۔ الظِّلِيلَةُ: مؤنث الظِّلِيلُ: بہت درختوں والا باغ۔ وادی کے نشیب میں پانی کا چشمہ۔ البِظْلَمَةُ وَالْبِظْلَمَةُ: جس سے سایہ لیا جائے، بڑا خیمہ، چھتری۔ جہ۔ مَقَالٌ: یہودیوں کی عید جس میں وہ پتے کے خیمے نصب کر کے چند یوم مہر کو غلامی سے نکلنے کی عید مناتے ہیں۔

ظَلَمَ (رَضَ) ظُلْمًا: البعيرُ: اونٹ کا چلنے میں لنگرانا۔ صفت (ظَالِعٌ) ظَلَعَتْ بِهِمُ الارضُ: زمین ان پر تنگ ہو گئی۔

الظُّلْمُ: مہم۔ عیب۔ "ارْبَعٌ عَلَى ظُلُوعِ" جو بات تم نہیں کر سکتے اس سے باز رہو۔ "ارْبَعٌ عَلَى ظُلُوعِ" اپنے معاہدے کی اصلاح کرو۔ "قِي عَلَى ظُلُوعِ" اپنے عیب چھپاؤ۔

الظُّلْعُ: لنگر پین۔ الظَّالِعُ: فار ذکر و مؤنث، مشکوک، متم، جھکا ہوا۔ مائل، مؤنث کے لیے

ظَالِعَةً بھی آتا ہے۔ ظَلَفَ (رَضَ) ظُلْفًا: کھر پر مارنا۔ ظَلَفَ نَفْسُهُ عَنِ الشَّيْءِ: اپنے نفس کو کسی چیز سے باز رکھنا۔ روکنا۔ ظَلَفَ (رَضَ) ظُلْفًا: القوم: قوم کے نشانات قدم پر چلنا۔ ظَلَفَ وَظَافَ مُظَالَفَةً: اثر: اپنے پاؤں کے نشانات کو چھپا دینا۔

ظَلَفَتْ (رَضَ) ظُلْفًا: الارضُ: زمین کا سخت ہونا۔ مَحْيَشَةُ ظُلُوفٍ: زندگی کا تکلیف دہ ہونا۔ نَفْسُهُ عَنِ كَذَا: رُکنا۔

ظَلِمَتْ: الرجلُ: سخت زمین میں روکا جانا تاکہ نشاناتِ قدم کا پتہ نہ لگ سکے۔ ظَلَفَهُ: عن كَذَا: دور کرنا۔ ظَلَفَ عَلَى كَذَا: زیادہ کرنا۔

إِظْلَفَهُ: دور کرنا۔ أَظْلَفَ وَتَظْلَفَ: سخت زمین میں پڑنا۔ الظِّلْفُ: کھر۔ نشانِ قدم۔ حاجت۔ گذران کی تنگی۔ جہ۔ ظُفُوفٌ وَأُظْلَافٌ: الظِّلْفُ: مہم۔ باطل، مباح، جائز۔ بے فائدہ۔

الظِّلْفُ وَالظِّلْفُ: پانی اور کھیر سے اونچی جگہ۔ "رَجُلٌ ظَلَفَ نَفْسَهُ" بری صفات سے پاک و بری آدمی۔ اَرْضٌ ظَلَفَةٌ وَظَلْفَةٌ وَظَلْفَةٌ: سخت و پتھریلی زمین۔

الظِّلْفُ: بد حال۔ ذلیل۔ سخت مشکل کام۔ جہ۔ ظُلْفٌ وَظُلْفٌ: کہتے ہیں "أَخَذَهُ بِظُلْفَيْهِ وَبِظُلْفَيْهِ" بِظُلْفَيْهِ: اس نے سب لے لیا۔ کچھ نہیں چھوڑا۔

الظُّلْفَاءُ: ہمواری چٹان۔ ظَلَمَ (رَضَ) ظُلْمًا وَظُلْمًا وَمُظْلِمَةً:

بیز کو بے موقع رکھنا۔ ظلم کرنا۔ حَقُّهُ: کسی کے حق کو کم کرنا۔ الارضُ: زمین کو بے موقع کھودنا۔ الطريقُ: راستہ سے ہٹ جانا۔ مَا ظَلَمَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا: تجھے ایسا کرنے سے کس نے منع کیا۔ ظَلَمَ البعيرُ: اونٹ کو بغیر کسی بیماری کے ذبح کرنا۔

ظَلَمَ (رَضَ) ظُلْمًا وَأَظْلَمَ: الَيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ اندھیرے میں داخل ہونا۔ مظلوم ہونا۔

ظَلَمَهُ: ظلم کی شکایت کرنا۔ ظالم کہنا۔ ظلم دور کرنا۔

تَظَلَّمَ: منہ کسی سے ظلم کی شکایت کرنا۔ ظلم کی فریاد کرنا۔ حَقُّهُ: کسی کے حق کو گھٹانا۔ الرجلُ: ظلم پر صبر کرنا۔

تَظَالَّمَ: القومُ: ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ أَظْلَمَ وَانْظَلَمَ: ظلم برداشت کرنا۔ الظُّلْمُ: مہم۔ برف۔ دانوں کی چمک۔ جہ۔ ظُلُومٌ۔

الظُّلْمُ: مہم۔ کسی چیز کا غلط استعمال۔ کسی چیز کو غیر محل رکھنا۔ شرارت۔ ظلم، حق کی کمی۔

الظُّلْمُ: وجود، بدن، بہاؤ۔ جہ۔ ظُلُومٌ۔ لَيْلٌ ظُلْمٌ: سخت تاریک رات۔ الظُّلْمَةُ وَالظُّلْمَةُ: رات کی تاریکی۔ اندھیرا۔ جہ۔ ظُلْمٌ وَظُلُمَاتٌ وَظُلُمَاتٌ: الظُّلْمُ: قمری ماہ کی آخری تین راتیں۔

الظُّلَامَةُ وَالْمُظْلِمَةُ: بے انصافی۔ ظلم۔ ظلم سے لی ہوئی چیز۔ جہ۔ مَظَالِمٌ۔

الظَّالِمُ: نا۔ جہ۔ ظَالِمُونَ وَظُلَمَةٌ وَظُلَمٌ۔

الظُّلَامُ وَالظُّلُمَاءُ: تاریکی۔ رات کا



کرنا۔ یفلان وعلیہ۔ غالب ہونا۔
- علی المیسر۔ راز جان لینا۔ فلان
بہا جتی۔ حاجت کو ہلکا جان کر اس کو
پیٹھ پیچھے ڈالنا۔ غفلت برتنا۔

ظہر دن، ظہارۃ۔ مضبوط پیٹھ والا
ہونا۔

ظہر رس، ظہرا۔ پیٹھ میں شکایت ہونا۔
صفت دکھائی

اظہر۔ الشیء۔ ظاہر کرنا۔ پیٹھ پیچھے ڈالنا۔
المکتاب۔ کتاب کو ازبر پڑھنا۔ اظہرۃ
علی عذوہ۔ کسی کو دشمن پر غالب
بنانا۔ اظہرۃ علی المیسر۔ بھید پر
کسی کو مطلع کرنا۔ کسی کو راز بتلانا۔ بہ۔
مرتبہ بڑھانا۔ وظہر۔ دوپہر میں
چلنا یا داخل ہونا۔ ظہر و اظہر۔
حاجتی۔ حاجت کو پیٹھ پیچھے ڈالنا۔ یعنی
اس سے غافل ہونا۔

ظاہرۃ مظاہرۃ و ظہارۃ۔ مدد کرنا
معاونت کرنا۔ بین الثوبین۔ دو
کپڑے اوپر نیچے پھینا۔

تظاہر۔ ظاہر ہونا۔ بالشیء۔ ظاہر کرنا۔
القوم۔ ایک دوسرے سے دور ہونا۔
ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

استظہر۔ احتیاط کرنا۔ الشیء۔ بچانے
کے لیے کسی شے کو پیٹھ کے پیچھے کرنا۔
بہ۔ مدد مانگنا۔ لہ۔ تیار ہونا۔ کہنے
کے لیے مائل ہونا۔ علیہ۔ چڑھنا۔
غالب آنا۔ الدارس۔ سبق کو ازبر
پڑھنا۔

الظہر۔ پیٹھ۔ اوپر کا بیرونی حصہ۔ جہ۔
اظہر و ظہور و ظہوان۔ لہو
اونٹ۔ بہت مال۔ تیر کا چھوٹا پہلو۔
خشکی کا راستہ۔ ساروا فی طریق
الظہر۔ وہ خشکی کے راستے چلے۔
سخت زمین۔

زیداً صاحبک۔
ظنۃ و آختۃ و آظنۃ و آظنۃ بکذا۔
متم کرنا۔ آظنۃ الشیء۔ وہم
میں ڈالنا۔

تظن و تظنی۔ گمان کرنا۔
الظن۔ گمان۔ شک و یقین کے معنی میں
بھی مستعمل ہے۔ جہ۔ ظنون۔ جہ
آظانین۔

الظنۃ۔ تمت۔
الظنات و الظنون۔ بدگمان۔ بدظن۔
رجل ظنون۔ کم حیلہ۔ کمزور۔ غیر
معتبر۔ بتر ظنون۔ وہ کنواں جس میں
پانی ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ ہو۔
ذین ظنون۔ وہ قرض جس کے
وصول ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ ہو۔
رجل ظنون۔ وہ شخص جس کی خبر
پر پھوس نہ کیا جاسکے۔

الظنین۔ متم۔ مشکوک۔ بدظنی کی وجہ
سے ناپسندیدہ۔ بے خیر آدمی۔ جہ۔
اظناء۔

الاظن۔ خیال رکھے جانے کے قابل۔
مظنۃ۔ الشیء۔ وہ جگہ جہاں چیز کے وجود کا
گمان اور خیال ہو۔ جہ۔ مظان۔

الظنوب۔ قدم کی جانب سے پٹیل کی ہڈی
کا کنارہ۔ قرع ظنابیب الامرۃ
اس نے کام کو آسان کر دیا۔ قرع
لہذا الامر ساقۃ و ظنوبۃ۔ اس
نے اس کام میں خوب کوشش کی۔

ظہور و ظہور۔ ظاہر ہونا۔ باہر آنا۔
ظہرۃ ظہرا۔ پیٹھ پر مارنا۔ ظہر
بعلیہ۔ اپنے علم پر فخر کرنا۔ ناز کرنا۔
الشیء و لہ۔ چیز کو پیٹھ پیچھے پھینکنا۔
یعنی غفلت برتنا۔ الثوب۔ کپڑے کا
ابرہ بنانا۔ د۔ ظہور و ظہور
البیت۔ کھر پر چڑھنا۔ علیہ۔ مدد

پہلا حصہ۔
الظلام۔ ظلم۔ غصہ کی نظر۔ ترجیحی نظر۔
الظلام و الظلیم و الظوم۔ بڑا
ظالم۔ بڑا بے انصاف۔

الظلیم۔ مظلوم۔ زبردست مرغ۔ جہ۔
ظمان و ظمان و اظلمۃ۔
الظلیمۃ۔ ظلم سے لی ہوئی چیز۔ امر
مظالم۔ بہت ہی کٹھن کام۔

ظلی رس، ظمأ و ظمأ و ظمأ و
ظمأ۔ سخت پیاسا ہونا۔ البیہ۔
مشتاق ہونا۔ صفت مذکر ظلی و
ظامی و ظمان، صفت مؤنث
ظلیۃ و ظامیۃ و ظمائی و
ظماتۃ۔ جہ۔ ظمأ و مذکر مؤنث
دونوں کے لیے)

ظمأ و اظمأ۔ پیاسا کرنا۔ ظمأ
الفرس۔ گھوڑے کو لاغر کرنا۔
تظمأ۔ پیاس پر مبر کرنا۔ الظمۃ۔ جہ
اظمأ و الظمأ و الظمأ

پیاس۔
المظمأ۔ سخت پیاس والا۔ المظمأ
پیاس کی جگہ۔

ظلی یظلی ظلی۔ گندم گوں ہونا۔
الظمیۃ۔ مؤنث الاظلی۔ جہ۔ ظلی۔
سفلۃ ظمیۃ۔ پشیدہ گندمی ہونٹ
عین ظمیۃ۔ باریک پلوں والی آنکھ
لثۃ ظمیۃ۔ کم خون والا مسوڑہ
ساق ظمیۃ۔ کم گوشت والی
پٹلی۔

ظن دن، ظنأ۔ الشیء۔ جاننا۔ یقین کرنا۔
”ظنوا ان آو ملجأ من اللہ الا
الیہ۔ انھوں نے یقین سے جان
لیا کہ اللہ کے عذاب سے کہیں پناہ
نہیں، مگر اسی کے پاس۔ اور گمان کے
معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے ”ظننت



قَدْ رَظَهَرُ. پرانی ہانڈی "قَدْ رَظَهَرُ" عَلٰی ظَهْرِ قَلْبِهِ اَوْ عَلٰی ظَهْرِ لِسَانِهِ۔
یعنی اس نے حفظ و ازبر پڑھا۔
"اَعْطَاهُ عَنْ ظَهْرِ يَدَيْهِ" اس نے
از خود بغیر بدلے کے دیا "هُوَ تَاوِيلُ
بَيْنَ ظَهْرِيَّهِمْ وَظَهْرَانِيَّهِمْ وَ
بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ" وہ ان کے
درمیان اترتا۔ کہ آیتہ بین ظہرائی
الکلیل میں نے اس کو عشا اور فجر
کے درمیان دیکھا۔ قَبْلَ لَهْ ظَهَرَتْ
المرجوت۔ وہ اس کے لیے بدل گیا اور
دشمنی کی "وَكَلَبَ الامرَ ظَهَرًا
لِبَطْنِ" اس نے معاملہ میں خوب غور
کیا "كَمَلَهُ ظَهْرًا" اس نے اس کو
اچانک مار دیا "هُوَ يَأْكُلُ عَلٰی
ظَهْرِيَّيْهِ" وہ میرے ہاتھ سے
کھاتا ہے یعنی میں اس پر خرچ کرتا ہوں
"لَا تَجْعَلْ حَاجَتِي بِظَهْرِي" یعنی
میری حاجت کو نہ بھولنا۔
الظہری۔ ضرورت کے لیے تیار رکھا ہوا

اونٹ، پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا۔ فراموش
کیا ہوا۔ ج۔ ظہاری۔
الظہر۔ سورج کے زوال کے بعد کا وقت
ظہر۔ ج۔ اَظْهَارُ۔
الظہرة۔ مدد۔ الظہرة والظہرة۔
مددگار و معین۔
الظہرة۔ گھر کا سامان۔ قوم اکنبہ۔
الظہیر۔ معین، محافظ مضبوط پیٹھ والا۔
پیٹھ میں شکایت رکھنے والا۔
الظہیرۃ۔ مؤنت الظہیر۔ دوپہر۔ ج۔
ظہائر۔
الظہار۔ تیر کے پرکا چھوٹا پہلو۔
الظہارۃ۔ من الثوب۔ ابرہ۔ یعنی
دوپہرے کپڑے کی اوپر کی تہ۔
الظاہر۔ فاء۔ بیرونی، واضح۔ ظاہر
البلد۔ بیرون شہر۔
الظاہرة۔ من العیون۔ ابھری ہوئی
آنکھ۔ ج۔ ظاہرات و ظواہر۔
ظاہرة الرجل۔ آدمی کا کنبہ۔
قبیلہ۔ ظاہرة الجبل۔ پہاڑ کی چوٹی

الظواہر۔ بلند زمینیں۔ المظہر۔
ظہور کی جگہ۔
المظہر۔ فاء۔ سواری والا۔ المظہر۔
مضبوط پیٹھ والا۔
الظوۃ۔ بے وقوف آدمی۔
ظافہ یظوفہ و یظافہ ظوفًا۔
دھتکارنا۔ دفع کرنا۔ خوف الوقبۃ
و ظافہا۔ گردن کا چمڑا۔ گردن کی
کھال۔ ترکتہ یظوف رقبۃ او
یظافہا۔ یعنی میں نے اس کو اکبلا
چھوڑ دیا۔
أخوی۔ بیوقوف ہونا نادان ہونا۔
الظیۃ۔ بیٹے والی لاش۔
الظیۃ والظیان شہد۔ الظیان جنگلی
چمیلی۔ ایک پودا جس کے پتے رنگائی
کے کام میں آتے ہیں۔
المطیۃ والمطوۃ۔ من الاراضی۔
جنگلی چمیلی والی زمین۔
ظیۃ تطییۃ۔ غمگین کرنا۔
الظیۃ۔ بے وقوف آدمی۔

ع

عَبَّ دُنْ عَبًا۔ چہرے کا تغیر کے بعد
خوبصورت ہونا۔ الماء۔ پانی کو منہ لگا
کر پینا جیسے جانور پیتے ہیں۔ عَبَّتِ
الدَّوۃُ۔ مہرتے وقت ڈول کا آواز کرنا۔
عَبَّابًا۔ البَحْرُ۔ موجوں کا بلند ہونا اور
زیادہ ہونا۔
تَعَبَّ۔ التَّيَبُّدُ۔ شراب کو ٹکڑا کر
پینا۔
الْأَعْبُ۔ فقیر۔ سخت ناک والا۔
العَبَّ۔ مص۔ اولاً۔ عَبَّ الشَّمْسُ۔ آفتاب
کی روشنی۔

العَبُّ۔ آسین کا کنارہ۔ ج۔ عَبَابُ۔
العَبُّ۔ اچھلتا ہوا پانی۔
العَبَابُ۔ پانی منہ لگا کر پینا۔
العَبَابُ۔ طوفان کا چڑھاؤ۔ عَبَابُ
الْبَحْرِ۔ موج۔ کہتے ہیں۔ "جَاؤُ
يَعْبَاهِمُ" وہ سب کے سب آئے
العَبِيۃُ والعَبِيۃُ۔ فخر، غور، تکبر۔
العَبْوَبُ۔ تیز رو دریا۔ لمبا تیز و گھوڑا بادل
ج۔ یَعْبِيۡبُ۔
عَبَّ دَفَّ، عَبَّ دَفَّ عَبَّ تَعَبَّ وَتَعَبَّ
الْمَتَاعُ۔ سامان تیار کرنا۔ الْجَبِشُ

لِلْحَوْبِ۔ لڑائی کے لیے لشکر تیار کرنا۔
عَبَّ إِلَى فَلَانٍ وَدَّ۔ ارادہ کرنا کہتے
ہیں۔ لَا عَبَّ بَلَّ۔ اس کی میں پرواہ
نہیں کرتا۔
لَعَبَّابًا۔ مَا عِنْدَكَ۔ جو کچھ اس کے پاس
تھا، لے لیا۔
العَبُّ۔ بوجھ، گھمڑی، بوری۔ ج۔ اَعْبَاءُ۔
و الْعَبُّ۔ نظیر و ثیل۔
العَبَاءُ۔ بوجھ۔
الْمَعْبُ۔ راہ۔
الْمَعْبُ۔ ماہواری کا چھتہ۔

عَبَّثَ رَضَ عَبَثًا - الشَّيْءُ بِالْشَيْءِ - اَيْک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینا۔

عَبَثَ دَسَ، مَذَاقُ کَرْنَا - کھیل کود کرنا۔

بِالِدِّیْنِ - دین کی توہین کرنا۔ صفت عَبِثٌ وَ عَبِثٌ -

عَبِثَةُ النَّاسِ - مَحَلَّتِ قَسَمِ کَ لُؤْک - اَلْعَبَثُ - لَعُو، بیهودہ - کہتے ہیں کہ فَعَلَ ذَٰلِكَ عَبَثًا - اس نے یہ کام لغو کیا۔

الْعَبِثُ - اِک قَسَمِ کَ بَیْہُول - الْعَبْثُ اَنْ وَالْعَبْثُ اَنْ - اِک خُوش بُو د اِر پودہ۔

بَفَعَتْ تَاءٌ هِی اَتَا هِی - عَبَدَ رَنَ عِبَادَةً وَ عِبُودَةً وَ عِبُودِيَّةً وَ مَعْبَدًا وَ مَعْبَدَةً -

اَللّٰہ - اللہ کو اِک جَانَنَا - عِبَادَتِ کَرْنَا خُدمت کرنا۔ ذَلِیل ہونا - خُشوع وَ خُضُوع

کَرْنَا کہتے ہیں "مَا عَبَدَکَ عِبْدِي" - تَحِجَّ کَسْ حِیْرَہ مَحِجَّہ سَہ رُؤہ -

عَبَدَکَ عِبُودَةً وَ عِبُودِيَّةً - اَبَاؤُ اِجْدَادِہ سَہ غَلَامِی مِیں جَہ اَنَا -

عَبَدَ دَسَ، عِبَدًا وَ عِبَدَةً - عَلٰی فُلَانٍ غَضَبِ نَاک ہونا۔ مَنَ نَاک بَہنِیوں چُڑھانا

مَا قَالَهُ - اِنکَارِ کِیَا - عَلٰی نَفْسِہ - اِنِے اِوِپر طَامَتِ کَرْنَا -

الرَّجُلُ - پِشیمان ہونا - اَلْکَارِہَا جِدَانہ ہوا - عَلٰی الشَّیْءِ - حَزِیص ہونا۔

صِفَتِ (عَابِدٌ وَ عَابِدٌ) عِبَادَةً - فَرَا نَبَر دَارِ بَنَانَا - غَلَامِ بَنَا لِنَا -

الطَّرِيقُ - رَاسَتہ کو چَا لُو بَنَانَا - پَا ثَمَالِ کَرْنَا - الرَّجُلُ - جَلْدِی کَرْنَا - بَھَا کَنَا -

الْبَعِیْرُ - اَوْنِٹِ کَ قَطْرَانِ مَلْنَا - عَبَدٌ یَعْبُدُ اَوْ کَچھ تِیز دَوڑنَا - مَا عَبَدَ اَنْ فَعَلَ کَذَا - اِس نے دِیر

نہیں کی کہ اِیسا کر دِیا۔ اَعْبَدَ الْعُلَامَ - غَلَامِ کَا مَالِکِ بَنَا دِیا۔ اَعْبَدَ الْعُلَامَ - غَلَامِ بَنَا لِیَا - الْقَوْمُ

جَمْع ہونا۔

تَعَبَّدَ - عِبَادَتِ کَ لَیے عَلْمَہ ہونا - اَلْفَرَا نَبَر دَارِی کَ لَیے بَانَا - غَلَامِ بَنَانَا -

غَلَامِیوں جِیسا سُلُوکِ کَرْنَا۔ تَعَبَّدَ دَ - الْقَوْمُ - قَوْمِ کَا مَتَفَرِّق ہونا۔

اِسْتَعْبَدَ اَلْاَعْبَادَ اَلْاَعْبَادَ - غَلَامِ بَنَا لِنَا - الْعَبْدُ - اِنْسَان - غَلَامِ - جَر - عَبِيدٌ وَ

عِبَادٌ وَ عِبَادَةٌ وَ عِبَادُونَ وَ اَعْبَدُ وَ اَعْبَدَ اَنْ وَ عِبْدَانُ وَ اَعْبَادٌ وَ اَعْبَادٌ وَ مَعْبَدَةٌ وَ

عَبْدٌ اَوْ عِبْدٌ اَوْ عِبْدٌ اَوْ عِبْدٌ - اَعْبَدُ وَ مَعْبُودَةٌ - جَمْع - اَعْبَادُ -

مَعْبُودَةٌ - اَعْبَدُ وَ اَعْبَدَ - عِبْدٌ قَتْنٌ وَ عِبْدٌ قَتْنٌ - خَالِصِ غَلَامِ - خَانَسَانِ

غَلَامِ - الْعَبْدِيَّةُ - الْعِبُودَةُ وَ الْعِبُودِيَّةُ وَ التَّعْبِيدَةُ - اَطَاعَتِ غَلَامِی - دَرَاہِمُ

عَبْدِيَّةٌ - پِرَا نَے دَرہِم - اَلْعِبَادُ - عِبْدِ کِی جَمْع - حِیرہ کَ چُنْدِ نَصْرَانِی

عَرَبِی قَبِیلَہ نَسَبِ کَ لَیے عِبَادِی آتا ہِے۔

اَلْعِبَادِيَّةُ وَ اَلْعِبَادِيَّةُ - لُؤْکوں کَ فَرَقِہ - گُھوڑوں کَ گَلِہ - دُور دَرَا ز رَاسَتِہ -

اَلْعَابِدُونَ، خَادِم - جَر - عِبْدَةٌ وَ عِبَادٌ وَ عِبَادُونَ - مَوْنِٹِ عَابِدَةٌ -

جَر - عَابِدَاتٌ وَ عَوَابِدُ - الْعَبْدَةُ - طَاقَتِ - بَقَا، مَوْتِ پَن - رَندِگی -

خُوش بُو پِیسَے کَا پَتَہَر - خُود دَارِی - الْمُعْبَدُ - عِبَادَتِ گَا د - جَر - مُعَابِدُ -

اَلْمُتَعَبِدُ - عِبَادَتِ کِی جَکَہ - اَلْمُعْبَدُ - کَسِی چَاؤٹَا - جَر - مُعَابِدُ -

اَلْمُعْبَدُ - چَا لُو رَاسَتہ - مَعْظَمِ مِیخ - کُھوٹِی - قَطْرَانِ مَلا ہوا اَوْنِٹِ - بَعِیْرُ مُعْبَدٌ -

وہ اَوْنِٹِ جِس کی سُواری چُھوڑ دی گئی ہو - مَوْنِٹِ مُعْبَدَةٌ - اَلْمُعْبَدَةُ -

قَارِلی ہونِی کُشتِی۔

عَبْرَدَنَ، عَبْرًا - غَمِ زُودہ ہونا - اَنَسُوہَا نَا - الْعَبْرُ - اَنکُھہ کَا اَنسوؤں سَہ ڈُ بڈ بَانَا -

اَلْکِتَابُ - خَامُوشِ مَطَالعہ کَرْنَا - اَلدَّرَاهِمُ - دَرہِمِیوں کو پَر کُھنا - گَننا -

عَبْرًا وَ عَبْرًا - السَّبِيلُ - رَاسَتہ طَے کَرْنَا - گُزَرْنَا - مَرْنَا - اَلشَّهْرُ اَوْ

اَلوَادِی - نَہرِیا وَ اَدِی کو پَار کَرْنَا - عَبَرُ بِلَا اَلْمَاءِ - پَار کَر دِیا - عَبْرًا وَ

عِبَارَةً - اَلرَّوْیَا - خُوابِ کِی تَعْبِیر دِینَا -

عَبْرَ دَسَ، عَبْرًا - اَنَسُوہَا نَا - صَنِیٹِ مَذَکِ وَ مَوْنِٹِ (عَابِرٌ) عِبْرَتِ حَاصِلِ کَرْنَا -

اِہلِ عَرَبِ کہتے ہیں "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا وَمَنْ یَعْبَرُ الدُّنْیَا وَلَا یَعْبُرُهَا" -

اِسے خُلا مِیں اِن لُؤْکوں سَہ کَر، جُو دُنْیَا سَہ عِبْرَتِ حَاصِلِ کَر تے ہیں اَوِربَہرِ تِیری

رَضَا مَنْدِی حَاصِلِ کِیے جَلْدِی سَہ نِیس مَر جَاتے۔

عَبْرَ - اَلرَّوْیَا - خُوابِ کِی تَعْبِیرِ بَیَانِ کَرْنَا - عَبْرًا فِی نَفْسِہ - دَلِ کِی بَاتِ ظَاہِرِ کَرْنَا -

عَنْ کَذَا - اِس کَ بَارے مِیں کُھنا - عَبْرًا بِالْمَاءِ - پَار کَرْنَا - اَلدَّرَاهِمُ دَرہِمِیوں کو پَر کُھنا اَوِر گَننا - بَہ - ہَلَاکِ کَرْنَا -

بِلَا اَلْمَر - دُشوار ہونا - اَعْتَبَرَ - الشَّیْءَ - اَزْمَانَا - غُور کَرْنَا - مَنہ تَعَجُّبِ کَرْنَا - بَہ - نَصِیحتِ حَاصِلِ کَرْنَا -

الرَّجُلُ - اَعْتَبَارِ کِیَا - اِسْتَعْبَرَ - اَنَسُوہَا نَے - غَمَلِی ہونا -

اَلدَّرَاهِمُ - گَننا اَوِر پَر کُھنا - اِسْتَعْبَرَ اَلرَّوْیَا اَوِ اَلدَّرَاهِمُ - تَعْبِیرِ بَیَانِ کَرْنَا

دَرَاہِمِ کو شُمَار کَرْنَا اَوِر پَر کُھنا - اَلْعِیْنُ اَنکُھہ کَا ڈُ بڈ بَا آنا -

اَلْعَابِرُونَ، گُزَر نَے والا - غُور کَر نَے والا - جَر - عَابِرُونَ - عِبَارَةً -

ع

ع

مؤنث (عَابِرَةٌ) دَخَلَ عَابِرٌ
سَبِيلٌ۔ داخل ہوا بغیر ٹھہرے گذرتے
ہوئے۔
الْعَبَّارُ۔ عابِر کا مبالغہ۔ تعبیر خواب دینے
والا۔ جَمَلُ عَبَّارٍ۔ چلنے میں قوی
اونٹ۔
الْعَبْرُ وَالْعَبْرُ۔ مِنَ الْوَادِي۔ کنارہ۔
مجلس۔ عَبْرٌ وَعَبْرٌ۔ بہت سے
آدمیوں کی مجلس۔ بَنَاتُ عَبْرٍ۔
جھوٹ۔ باطل۔ أَبُوبَنَاتِ عَبْرٍ
جھوٹا۔
الْعَبْرُ۔ ہر چیز کی زیادتی۔ انسانوں کی کثرت۔
تیز چلنے والا بادل۔ وہ عورت جس کا
بچہ کم ہو گیا ہو۔ عقاب والعبور۔
آگہی کی گرمی جو آنسوؤں کو بہاتی ہے۔
الْعَبْرُ وَالْعَبْرُ وَالْعَبْرُ مضبوط۔ قوی
دواحد جمع۔ مذکر مؤنث کہتے ہیں۔
”فَلَانٌ عَبْرٌ بِكُلِّ عَمَلٍ“ فلاں ہر
کام کے لائق ہے۔ جَمَالُ عَبْرٍ
اُسفار۔ چلنے میں قوی اونٹ۔
الْعَبْرَةُ۔ عبور کا اسم مرۃ۔ آنسو۔ ج۔
عَبْرُوا عَبْرَاتٍ۔ غم۔
الْعَبْرَةُ۔ نصیحت۔ کہتے ہیں: لَكَ يَفْلَانِ
عَبْرَةٌ احوال میں غور و فکر، تعجب۔
وہ اصل جو نفاڑ کا مرجع ہو۔
الْيَعْبَارَةُ۔ عَبْر کا اسم ہے معنی پرولالت
کرنے والے الفاظ۔ کہتے ہیں: فُلَانٌ
حَسَنُ الْيَعْبَارَةِ۔ فلاں آدمی اچھا
بیان کرتا ہے۔ ”هَذَا يَعْبَارَةٌ عَنْ“
کذا۔ یہ چیز اس کے ہم معنی ہے۔
الْعَبْرُ۔ مؤنث عَبْرَةٌ۔
الْعَبْرَانُ۔ مؤنث عَبْرَانِ۔ ج۔ عَبَارِي
آنسو بہانے والا۔ غمزہ۔
الْعَبْرِيُّ وَالْعَبْرَانِيُّ۔ یہودی۔ یہودیوں
کی زبان۔

الْعَبْرَانِيَّةُ۔ یہودیوں کی زبان۔ یہودیت۔
الْعَبْرُ۔ کلاں۔ سَهْمٌ عَبْرٌ۔ بہت سے
پروں والا تیر۔ قوم عَبْرِيٌّ۔ بہت
سے لوگ۔
الْمَعْبَرُ۔ گذرگاہ۔ گھاٹ۔
الْمَعْبَرُ وَالْمَعْبَرَةُ۔ دریا پار کرنے کا ذریعہ۔
الْمَعْبَرُ۔ بہت سارے بالوں یا پروں والا۔
غُلَامٌ مَعْبَرٌ۔ وہ لڑکا جس کو احتمال
ہونے لگے۔ مگر اس کی فتنہ نہ ہوئی ہو۔
الْعَبُورُ۔ بکری کا بچہ۔ ج۔ عَبَائِرُ۔ غیر
خشنہ شدہ۔ ج۔ عَبْرٌ۔
الْعَبْرُ۔ چیتے کا بچہ۔ تیندوے کا بچہ۔
عَبَسَ رَضًى (عَبَسَ وَجْهًا) ترشروئی
کرنا۔ تیوری چڑھانا۔ پس بہ جبین ہونا۔
(عَبَسَ) الْوَجْهَ۔ ترشرو ہونا
عَبَسَ وَجْهَهُ۔ ترشروئی کرنا۔
عَبَسَ رَسًى (عَبَسَ) الْبَعِيرُ۔ اونٹ کی
دُم۔ میٹکی کا خشک ہو جانا۔ التَّسْمُ
فِي يَدَيْهِ وَعَلَيْهَا۔ میل خشک
ہونا۔
أَعْبَسَ الْرَجُلُ مِيلًا هُونًا۔ الابل۔
دُم پر خشک میٹکی والا ہونا۔
تَعَبَسَ ترشرو ہونا۔
الْعَبَسُ۔ اونٹ کی دم پر خشک میٹکی۔
الْعَبُوسُ وَالْعَبَاسُ۔ بہت ترشرو۔
شیر۔ يَوْمَ عَبُوسٍ۔ سخت دن۔
عَبَسَ رَنًى (عَبَسَ) الشَّيْءُ۔ اصلاح کرنا
درست کرنا۔
الْعَبَسُ۔ درستی، اصلاح۔ وَالْعَبَسُ
الْعَبَسَةُ عِبَادَتُ۔ کتہ ذہن ہونا۔
الْعَبَسَةُ وَالْعَبَسَةُ۔ غفلت۔
عَبَطَ رَضًى (عَبَطَ) الذَّرِيْعَةُ۔ موٹے
تارے جانور کو ذبح کرنا۔ اَضْمَرَعُ۔
تھن کو خون آلود کرنا۔ التُّرَابُ۔
مٹی اڑانا۔ الرَجُلُ۔ غیبت کرنا۔

الدَّوَاهِي فَلَانًا۔ بلا سبب مصیبت
پڑنا۔ الكَذِبُ۔ بلا وجہ جھوٹ بولنا۔
عَبْرَضَةً۔ گالی دینا۔ بے آبرو کرنا۔
عَبَطَتِ الرِّيحُ وَجْهَ الْأَرْضِ۔
ہوا کا سطح زمین کو صاف کر دینا۔ الشَّيْءُ
چیز کا پھٹ جانا۔
أَعْبَطَهُ۔ الموتُ۔ بحالت تندرستی و
جوانی مر جانا۔
أَعْبَطَ۔ الذَّرِيْعَةُ۔ موٹا جانور ذبح کرنا۔
الموتُ۔ بحالت صحت و جوانی موت
آنا۔ الرَجُلُ مُطْلَمًا قَتَلَ كَرْنًا۔ العِرْضُ
گالی دینا۔ بے آبرو کرنا۔ الرَجُلُ۔ بخار
آنا۔ زخمی کرنا۔
الْعَبَطُ۔ سفید جھوٹ۔ خالص بہتان۔ کہتے
ہیں: مَا تَعْبَطُهُ۔ تندرست
جوان مر گیا۔
الْعَبِيطُ۔ وہ ذبح کردہ جانور جو موٹا تازہ
تندرست ہو۔ ج۔ عَبَطٌ وَعَبَاطٌ۔
أَدِيمٌ عَبِيطٌ۔ پھٹا ہوا چمڑا۔ دُمُ
عَبِيطٌ۔ تازہ خون۔
الْإِعْبَاطُ۔ اِعْبَطَ كَامَصِدْرٍ۔ اَلْحَدَفُ
الْإِعْبَاطِيُّ عِنْدَ النَّحَاةِ۔ بلا
سبب کے مرف کرنا۔
الْعَوْبُطُ۔ مصیبت۔ وہ حصہ جہاں پانی
زیادہ ہو۔ ج۔ عَوْبَاطٌ۔
عَبَبَ الْجَحِشُ۔ شکر کا شکست کھانا۔
تَعَبَبَ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کو بالکل برباد
کر دینا۔
الْعَبَبُ۔ چوڑا کپڑا۔ نرم کپل جو اونٹ کے
بالوں سے بنا ہو۔
الْعَبَابُ۔ بلند قامت، کشادہ خلق والا۔
تَامَ الْخَلْقَتُ۔
عَبَقَ دَسًى، عَبَقَاوُ عِبَاقَةٍ وَعَبَاقِيَّةٌ۔
الطِّيبُ بلہ خوشبو لگنا۔ المَكَانُ
بِالطِّيبِ۔ جگہ کا خوشبو سے مہک جانا۔

فُلَانٌ بِالْشَيْءِ حَرِيصٌ هُونًا - بِالْمَكَانِ اقامت کرنا۔

عَيْقٌ - رَائِحَةُ الطَّيِّبِ - خوشبو پھیلانا۔

الْعَبْقَةُ - کھی وغیرہ کا بقیہ۔

الْعَيْقُ - خوشبودار - وہ چیز جس سے خوشبو
فکے کہتے ہیں - "رَجُلٌ عَيْقٌ لَيْقٌ"۔

ظریف، خوش مزاج آدمی۔

الْعَبَاقِيَّةُ - مکار مصیبت، چہرہ کا نشان
زخم، شام - چور۔

عَبْقَرٌ - عَبْقَرَةٌ - السَّوَابُ - برابر چکنا۔

عَبْقَرٌ - ایک مقام جہاں بقول عرب جنات
بہت رہتے ہیں۔

الْعَبْقَرِيُّ - منسوب عبقر کی طرف - سردار۔

ہر چیز سے برتر تعجب انگیز - مؤنث

عَبْقَرِيَّةٌ - الْعَبَاقَرِيُّ - ایک قسم

کا عمدہ فرش۔

عَبَكْتُ دُنْ - عَبَكَا - الشَّيْءُ بِالْشَيْءِ - ملانا۔

الْعَبِكَةُ - مُكَلَّطٌ - مشک کا میل - رسی کی گرہ۔

کہا جاتا ہے - "يَبْلِي الْحَبْلُ وَتَبْقَى

الْعَبَكَةُ" - یعنی رسی جل گئی، مگر بل

نہ گیا۔

عَبَلُ دُنْ - عَبَلَا - الشَّجَرَةَ - درخت سے

پتے جھاڑنا - الْجَلُّ - رسی بٹنا -

الشَّيْءُ - کاٹنا - روکنا - بہ - لے گیا۔

- الشَّجَرُ - پتے نکلنا۔

عَبِلَ دُنْ - عَبَلَا - عَبِلَ دُنْ - عَبُولًا

و عَبَالًا - موٹا ہونا - صفت عَبِلٌ و

عَيْلٌ - جہ - عِبَالٌ و عَابِلٌ - جہ عَيْلٌ

مؤنث عَيْلَةٌ - جہ - عِبَالَتٌ و

عِبَالٌ -

أَعْبَلَ - موٹا ہونا - سفید ہونا - الشَّجَرُ - درخت

کا لپٹی ہوئی پتیوں والا ہونا۔

الْعَبْلُ - لپٹی ہوئی پتیاں - گری ہوئی پتیاں

جہ - أَعْبَالٌ -

الْعَبِيلُ - موٹا - مؤنث عَيْلَةٌ -

الْأَعْبَلُ - ایک سخت پتھر جو سفید، سرخ اور
کالا ہوتا ہے - جہ - أَعْبَلَةٌ -

الْعَبَالُ - جنگلی گلاب۔

الْعَبْلَاءُ - چٹان - سفید چٹان - جہ - عِبَالٌ -

الْمُعْبَلَةُ - نیر کا لمبا چوڑا پھل - جہ - مَعَابِلٌ -

الْعَبُولُ - موت۔

عَبَمَ دُنْ - عَبَامَةٌ و عَبَامًا - بوقوف

ہونا - مَاءٌ عَبَامٌ - بست پانی۔

الْعَبَامُ - سُوسْت - تھکا ماندہ - موٹا - بوقوف

بے عقل، بے ادب - بزدل - جہ -

عَبْمٌ -

الْعَبَامَاءُ - بوقوف۔

عَبِنَ دُنْ - عَبْنًا - کھردرا اور موٹا ہونا۔

صفت عَبْنٌ و عَبْنِيٌّ - مؤنث -

عَبْنَةٌ - جہ - عَبْنِيَّاتٌ -

الْعَبْرُ - نرگس کا پھول، چنبیلی - د

الْعَبَاهُ - بھرے جسم والا - لمبا۔

عَبَهْلَةٌ - عتاب کیا - عَهْلُ الْاِبِلِ - اونٹ

کو آزاد چھوڑ دیا۔

الْعَبَاهِلُ - مِنَ الْاِبِلِ - آزاد اونٹ

الْعَبَاهِلَةُ - وہ بھنی بادشاہ جو اسلامی

دور سلطنت میں اپنی سلطنت پر چھوڑ

دیئے گئے تھے - واحد عَهْلٌ -

عَبَا يَعْبُو عُبُوًا - چہرے کا دکھنا -

الْمَتَاعُ تیار کرنا - جَارِيَةٌ عَابِيَةٌ -

حسین لڑکی۔

عَبِيٌّ تَعْيِيَةٌ - الْجَيْشُ - لشکر کو

ترتیب دینا۔

تَعْيِيٌّ - تیار ہونا۔

الْعَيْيُ - حصہ - کہتے ہیں - هَذَا عَيْيُكَ

بَيْنَ الْحُزُورِ ذَرْعٌ كَرْدٌ جَانُورٌ

یہ تمہارا حصہ ہے - "رَجُلٌ عَبَاؤُ

و عَبِيٌّ - بھاری جسم والا مرد - اکھڑ -

الْعَبَايَةُ - چوغہ - جہ - عَبَايَاتٌ و عَيْيٌ -

عَتَهُ دُنْ - عَتَا - بِالْمُسْأَلَةِ - سوال کرنے

میں اصرار کرنا - عَالَمٌ - جھڑکی

دینا۔

عَالَمَةٌ - جھگڑا کرنا - بار بار بات کو دہرانا۔

الْعَتَتْ - درشتی کلام۔

عَتَبَ دُنْ - عَتَبَا و عَتَبَانًا و مَعْتَبًا و

مَعْتَبَةً - مَعْتَبَةٌ عَلَيْهِ - سرزنش

کرنا - خفگی کرنا - عَتَبَا و عَتَبَانًا و

عَتَبِيٌّ - فُلَانًا - ملامت کرنا - عَتَبَا

و عَتَبَانًا و تَعَتَبَانًا - ایک پاؤں پر

کودنا - البعير - تین ٹانگوں پر چلنا۔

عَتَبَانًا - الدُّبُقُ - بجلی بار بار چمکی۔

مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ و مِنْ قَوْلٍ

إِلَى قَوْلٍ - ایک جگہ سے دوسری جگہ

یا ایک بات سے دوسری بات کی طرف

منتقل ہونا۔

عَتَبَ - الرَّجُلُ - دیر کرنا - الْبَابُ - دروازہ

بنانا - عَاتَبَهُ عَتَابًا و مَعَاتَبَةً -

- عَلَيَّ كَذَا - ملامت کرنا - غصہ کرنا۔

ناز سے خطاب کرنا۔

أَعْتَبَهُ - سبب ناراضگی کو دور کرنا - راضی کرنا۔

أَعْتَبَ - عَنَهُ - پھر جانا۔

تَعَتَّبَ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے پر اظہار

ناراضی کرنا - کہتے ہیں - "فُلَانٌ لَا يَتَعَتَّبُ

بِشَيْءٍ وَلَا يَتَعَتَّبُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ -

اس پر عیب نہیں لگایا جاتا۔ تَعَتَّبَ

بَابُ فُلَانٍ - چوکھٹ کو پھلانگ جانا۔

چوکھٹ پر پڑا رہنا۔

تَعَاتَبَ - الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے پر

عتاب کرنا - ایک دوسرے کے ساتھ ناز

سے گفتگو کرنا۔

رَاعَتَبَ - ميان روی اختیار کرنا - الطَّيِّقُ

آسان راہ کو چھوڑ کر دشوار راہ اختیار کرنا

- مَنَهُ و عَنَهُ - پھر جانا۔

اِسْتَعْتَبَهُ - رخصت کرنا - رخصت طلب

کرنا کہتے ہیں - "اِسْتَعْتَبْتُهُ فَأَعْتَبْتَنِي"





میں نے اس سے رضامندی طلب کی تو اس نے مجھے رضامند کر دیا۔ اسی سے ہے "مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ" موت کے بعد طلب رضا کا موقع نہیں العتب۔ لنگڑاپن۔ کہتے ہیں "بِرَجْلِهِ عَتَبْتُ" اس کے پاؤں میں لنگ ہے۔ العتب۔ بست عتاب کرنے والا۔ العتب۔ ستا باد و بیچ کی انگلی یا بیچ والی اور چھٹکیا کے پاس والی انگلی کا درمیانی حصہ۔ فساد۔ العتب والعتبہ۔ امر مکروہ۔ سختی۔ سخت زمین۔ العتبہ۔ چوڑھٹ۔ سیڑھی کا زینہ۔ عتب وعبتات۔ عتبات الموت موت کی سختیاں۔ العتبہ۔ وادی کا موڑ۔ العتبی۔ رضا۔ العتبہ۔ سبب عتاب۔ عتبت۔ العتب۔ وہ شخص جس پر عتاب کا اثر نہ ہو۔ راہ۔ المعتبہ والمعتبہ۔ مہم۔ عتاب۔ غضب۔ المعتب۔ مہم جس پر ستاب کیا جائے۔ اُم عتبات۔ اُم عتاب۔ رجو۔ عتدك عتادا وعتادة۔ الشی۔ تیار ہونا۔ آمادہ ہونا۔ عتد وعتد۔ الشی۔ تیار کرنا۔ تعتد۔ فی صنعہ۔ کام کو فور سے کرنا۔ العتاد۔ وہ سامان جو کسی مقصد کے لیے تیار کیا جائے، سامان جنگ۔ بڑا پیالہ۔ عتد وعتد۔ اعتد۔ العتد والعتد۔ من الخیل۔ دوڑکے لیے تیار گھوڑا۔ مضبوط، کامل الخلق (مذکر و مؤنث)

العتد۔ سامان۔ کہتے ہیں "خُذْ لِلْأَمْرِ عَتْدَةً"۔ کام کے لیے اس کا سامان لے لو۔ عتد۔ العتود۔ برہ یک سالہ۔ عتد۔ اعتد۔ عتدان۔ العتید۔ تیار۔ آمادہ۔ بھاری جسم کا۔ العتید۔ مؤنث عتید۔ سنگھار مان عتور رض۔ عتورا۔ الشی۔ مضبوط ہونا۔ (عتقاراً، العتيرة۔ ذبح کرنا۔ عتروا وعترونا۔ الرمہ۔ ہلانا۔ العتور۔ اصل۔ اسی سے ضرب المثل ہے۔ "عَادَتْ إِلَى عَتْرِهَا لَمِيسٌ" لمیس اپنی اصل کی طرف لوٹ گئی۔ یہ ضرب المثل ایسے شخص کے لیے بولی جاتی ہے جو اپنی پرانی عادت کی طرف پھر لوٹے۔ العتور۔ بروہ جانور جو ذبح کیا جائے۔ بکواس۔ والعتيرة وہ بکری جس کو زمانہ جاہلیت میں ماہِ رجب میں بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا۔ عتار۔ العترة۔ کنہ، اولاد، خالص مشک کا ٹکڑا۔ خوشگوار تھوک۔ مرز بخوش۔ دانتوں کی تیزی اور صفائی۔ العتار۔ عضو تناسل۔ العتار۔ بہادر۔ مضبوط گھوڑا۔ سخت خالی مقام۔ المعتور من الرجال۔ موٹا آدمی۔ لغت عوام میں شری آدمی کو کہتے ہیں۔ عتوسہ۔ سخت بھیجی۔ سختی سے پکڑا۔ عتوسہ مالہ۔ مال غصب کر لیا۔ العتوس والعتوس۔ سختی سے بھیجنے والا۔ بڑے ڈیل کا موٹے جوڑوں والا۔ شیر، مرغ۔ العتوریس۔ سخت کرش، غضبناک، ہلا مصیبت۔

العتوریس۔ مرنی مضبوط اونٹنی۔ العتوسان۔ مرغ۔ عتوت۔ لہ۔ سخت ہونا۔ تعتوت۔ اظہار بزرگی کرنا۔ العتوريف والعتوروف۔ خبیث، بدکار۔ مضبوط اونٹ۔ عتاريف۔ العتورفان۔ مرغ۔ عتف رض۔ عتفا۔ الشی۔ بال کھیرنا۔ العتف۔ من اللیل۔ رات کا ایک حصہ۔ عتق رض۔ عتقا وعتقا۔ عتقا وعتاقہ۔ العتد۔ آزاد ہونا۔ صفت رعیتی وعتیق۔ عتق دن، عتقا وعتقا وعتق دن۔ عتاقہ۔ پرانا ہونا۔ الشی۔ درست ہونا۔ الخمر۔ شراب کا پرانی اور عمدہ ہونا۔ صفت عاتق وعتیق۔ عتاق۔ الیمین علیہ۔ قسم واجب ہوئی۔ عتق۔ العتد۔ غلام کو آزاد کرنا۔ الفرس تیز دوڑنا۔ مالہ۔ درست کرنا۔ عتق۔ الخمر۔ پرانی کرنا۔ عتق الثوب پرانا کرنا۔ فلانا بقبہ۔ منہ سے کاٹ کھانا۔ العتق۔ مہم۔ خالص الاصل ہونا۔ جمال، شرافت، نجابت، آزادی۔ کنگی۔ العتق۔ کنگی، آزادی۔ عاتق بمعنی کاندھا کی جمع۔ العاتق دف، کاندھا۔ عتاق، عتق۔ کشادہ مشک، عمدہ شراب۔ کنزاری۔ عتق۔ عاتق الشی۔ نام ستارہ والعاتقہ۔ پرانی سرخ کمان۔ العتاق۔ پرانی عمدہ شراب۔ العتیق۔ پرانا۔ آزاد کردہ غلام۔ کریم، عمدہ۔ عتقا، عتق۔ فرس عتیق۔ خوش منظر گھوڑا۔ عتاق۔ البیت العتیق۔ خانہ کعبہ۔ امہ

عَثَّتْ رَنًّا عَثًّا۔ اصرار کرنا۔ عَثَّتِ الْعُثَّةُ
الصَّوْفَ۔ کپڑے کا اون کو پیٹ لینا
عَثَّتِ الْحَذَّةُ فُلَانًا۔ سانپ کا



دُس لینا۔ سانپ کے پھونکنے سے بال
گر جانا۔

عَثَّتْ تَعَثُّبًا۔ عَاتَتْ عَثَاثًا وَمُعَاثَةً۔
فی غَتَايَہ۔ مَرْنَا۔

رَعَتْقَہ۔ عَوْقُ سُوْع۔ بداصلی کو نیکی سے
روک دینا۔

العِث۔ ایک قسم کے سانپ جو خشک سال
میں ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔

ج۔ عِثَاتٌ۔
العِثَاءُ۔ سانپ۔

العِثَّةُ۔ مِنْ اِنْسَاء۔ دہلی تیلی عورت
گنام حقیر عورت۔ ج۔ عِثَاتٌ۔

العِثَّةُ۔ اَدْنِ چائے والا کپڑا۔ ج۔ عِثٌ۔
عِثٌ۔ بڑھیا۔ بیوقوف عورت۔

بذبان گنام عورت۔
عِثْمٌ دُض۔ عِثْجًا۔ آہستہ آہستہ پینا۔

العِثْمُ۔ رات کا حصہ۔ ج۔ العِثْمُ و
العِثْمَةُ۔ لوگوں کی جماعت۔

عَثَرَنَ مِنْ عَثَرٍ دَس۔ عَثَرٌ رَن
عَثَرًا وَعِثْرًا وَعِثْرًا۔ گرنا۔

الفرس۔ گھوڑا پھسلا اور اوندھا ہوا۔
۔ العَوْقُ۔ رگ نے حرکت کی۔ کتے

ہیں۔ عَثَرٌ يَحْمِلُ الزَّمَانُ۔ زمانے
نے تباہی ڈال دی۔ عَثَرٌ جَدُّہ۔

ہلاک ہو گیا۔
عَثَرَنَ (مِنْ) عَثَرًا وَعِثْرًا۔ عَلَى السَّيْرِ

وَعِثْرًا۔ بھید پر طلع ہوا۔
عَثَرٌ دَا عَثَرًا۔ پھسلا یا۔ اَعَثَرَهُ

عَلَى السَّيْرِ وَغَيْرِہ۔ بھید بتا دیا۔
اَعَثَرَبَهُ عِنْدَ الْاَمِيرِ۔ عیب

لگایا۔ طعنہ دیا۔
تَعَثَّرَ الْجُلُ وَالْفَرَسُ وَالْجُلْدُ۔ بمعنی

عَثَرٌ۔ لِسَانُہ۔ زبان رُک۔
العِثْرُ۔ عقاب۔ والعِثْرُ۔ جھوٹ۔

العِثْرَةُ۔ نعرش۔ جہاد۔ لُاثِي۔ گرنا

ج۔ عَثَرَاتٌ۔

العِثْرُ۔ بہت گرنے والا۔ بہت پھسلنے والا۔
العِثْرُ۔ جھوٹا۔

العِثْرُ۔ غیر کے شکار کرنے کے لیے گڑھا
کنواں۔ ج۔ عَوَاثِرُ۔ وَعَوَاثِرُہ۔

۔ (العِثْرُ) پھسلنے۔ بدی، مکروہ۔
ہلاکت کی جگہ۔ جب کوئی تکلیف میں

پڑ جائے تو کہتے ہیں۔ وَقَعَ خِلَافٌ
فِي عَاثِرٍ شَرِّہ۔ فلاں سسخی میں

بتلا ہو گیا۔
العِثْرُ۔ مٹی بغار۔ والعِثْرُ والعِثْرُ۔

مخفی نشان۔
عِثْکَل۔ الہود جہ۔ ہودہ کو بھار سے

مزین کیا۔ الرجلُ بِسُتِ رَفَارِہ
دوڑا۔ العِثْقُ۔ بہت گچھ دار ہوا۔

العِثْقُ لَکَ وَالْعِثْقُ لَکَ وَالْعِثْقُ لَکَ۔
گھوڑوں کا گچھا۔ ج۔ عِثَاکِیْل۔

العِثْقُ لَکَ۔ وہ بھار جو ہودج میں
لٹکانے جائیں۔

عِثْلُ دَس۔ عِثْلًا۔ الشَّیْءُ۔ بکثرت ہونا۔ موٹا
ہونا۔ صفت رَعِثْلٌ وَعِثْلٌ۔

عِثْلَتْ رَن۔ عِثْلًا۔ بَدَہ۔ ٹوٹنے کے
بعد ٹیڑھا جڑا۔

العِثْلُ۔ بکری کے اوچھ کے اوپر کی چربی
کی چادر۔

العِثْلُ۔ بیوقوف۔ ج۔ عِثْلٌ۔
العِثْلُ۔ بچو۔ نہ۔

العِثْلُ۔ جس کے سر اور جسم پر بہت سے
بال ہوں۔ مِنْ الرِّجَالِ۔ اَجْد۔ اکھڑ۔

عِثْمَرَن۔ عِثْمًا۔ الْعِظْمُ الْمَسْکُورُ
ٹوٹی ہوئی ہڈی کا نام ہمارے جڑا۔ الْعِظْمُ

ہڈی کو نام ہمارے جڑا۔
عِثْمَرَن۔ بہ۔ مد طلب کی نفع اٹھایا۔

بیدہ۔ جھکایا۔
العِثْمُ۔ بچو۔ ہاتھی۔

العِثْمُ۔ بچو۔ ہاتھی۔

العِثْمُ۔ گور خر۔

العِثْمَانُ۔ جاری کا بچہ۔ سانپ، سنبویا۔
اژدھ کا بچہ۔ الْوَعِثْمَانُ۔ سانپ۔

عِثْنُ رَن۔ عِثْنًا وَعِثْنًا وَعِثْنًا۔ فِي
الْجَبَلِ۔ پہاڑ پر چڑھنا۔ ر۔ وَعِثْنُ

الْثَوْبِ۔ کپڑے کو دھونی دی۔ و
عِثْنَتْ وَعِثْنَتْ۔ النَّارُ۔ آگ سے

دھواں نکلا۔ کہتے ہیں۔ عِثْنُ عَلٰی
الْقَوْمِ۔ فساد پیدا کر دیا۔

عِثْنُ دَس۔ عِثْنًا۔ الثَوْبِ۔ کپڑا
خوش بدوار ہوا۔

تَعِثْنُ۔ دھونی لگائی۔
العِثْنُ۔ مہ۔ بغار۔ دھواں۔ ج۔ عَوَاثِرُہ۔

العِثْنُ۔ دھواں بغار۔ جھوٹا بت۔
العِثْنُ وَالْمَعِثْنُ۔ وہ کھانا جو دھواں

لگنے سے بگڑ گیا ہو۔
العِثْنُ۔ ناطق مالیات۔ روٹی رنگی ہوئی۔

المَعِثْنُ۔ مہم۔ بڑی داڑھی والا۔
العِثْنُ۔ داڑھی۔ مِنْ الْمَطْرِ وَالرَّيْحِ

بارش یا ہوا کی ابتداء۔ ج۔ عِثَانِیْنِ۔
عِثَا یَعِثُّوا عِثْوًا۔ عِثَا یَعِثُّ یَعِثُّ و

عِثَا یَعِثُّ عِثًّا وَعِثًّا۔ فساد
کفر یا غور میں مبالغہ کرنا۔ صفت

عَاتِ۔ ج۔ عِثَا وَعِثَّا وَعِثَّا۔
العِثْوَةُ۔ دراز زلف۔ ج۔ عِثَّا۔

الْاَعِثُّ۔ سیاہی مائل رنگ والا۔ احمق۔
کثیر بالوں والا۔

العِثْوَةُ۔ بچو۔
العِثْوَانُ۔ مذکر بچو۔

عِثْرَنَ (مِنْ) عِثْرًا وَعِثْرًا۔ چلانا۔
آواز کرنا۔ النَّاقَةُ۔ اونٹنی کو

عاج عاج کہہ کر ہانکنا۔ دَا عِثْرَتِہ
الویرج۔ ہوا کا غبار اڑا دینا۔ کہتے ہیں۔

”لَہُ رَاحَةٌ تَعِثُّ فِي الْمَسْجِدِ“
اس کی بو ہے جو مسجد میں بھڑک اٹھتی ہے۔

اس کی بو ہے جو مسجد میں بھڑک اٹھتی ہے۔

عَجَبٌ - الْغَبَارُ - غبار اڑانا - الْبَيْتُ
مِنَ الدُّخَانِ - مکان کو دھوئیں
سے بھر دینا۔

تَعَجَّبَ - دھوئیں سے بھر جانا۔

الْعُجَّةُ - ایک قسم کا کھانا - جو اڑا آئے

گھی یا تیل میں ملا کر پکایا جاتا ہے، خاگینہ۔

الْعَجَابُ - غبار - دھواں - یوقوف - ادنیٰ

لوگ - واحد الْعَجَاجَةُ -

الْعَجَاجَةُ - غبار - بہت سارے اونٹ

کتے ہیں "لَبَدٌ عَجَاجَةٌ" جس کام

میں تھا اس سے رک گیا - كَفَّ

عَجَاجَتُهُ عَلَيْهِمْ - غارت ڈالی -

الْعَجَاجُ - چمکنے والا - چلانے والا - غبار

اڑانے والا - يَوْمٌ عَجَاجٌ - گرد و

غبار والا دن۔

رِيحٌ مَعَارِجٌ - غبار اڑانے والی ہوا۔

عَجَبٌ (س) عَجَبًا - مِنَ الْأَمْرِ وَلَهُ

تعجب کرنا - اِیْہ - پسند کرنا۔

أَعْجَبَهُ وَتَعْجَبَهُ - تعجب میں ڈال دینا۔

أَعْجَبَ بِالشَّيْءِ - خوش ہونا - تعجب

کرنا - أَعْجَبَ بِنَفْسِهِ - غرور کرنا - بکر

کرنا کہا جاتا ہے "مَا أَعْجَبَهُ"

بِرَأْيِهِ - وہ اپنی رائے پر مغرور ہے۔

(یہ شاذ ہے اس لیے کہ فعل تعجب

مجهول سے بنایا گیا ہے،

تَعْجَبَ وَاسْتَعْجَبَ - منہ - تعجب کرنا۔

کتے ہیں "تَعْجَبْنِي فَلَانٌ؛ فَلَانٌ

مجھے فریفتہ کر دیا اور فتنے میں ڈال دیا۔

الْعَجَبُ - ہر چیز کا پچھلا حصہ - دم کی جھڑ

ج - عَجُوبٌ -

الْعُجْبُ - فخر، تکبر، خود بینی، پیش آنے

والی چیز سے انکار۔

الْعَجْبُ - حیرانی - تعجب - مِنَ اللَّهِ -

رضا - ج - أَعْجَابٌ -

وہ چیز جس پر تعجب کیا جائے، الْعَجَابُ

تعجب کی حد سے بڑھ جانا۔ مبالغہ کے

واسطے عَجَبٌ عَجَابٌ اور عَجَبٌ

عَجِيبٌ - کہتے ہیں۔

الْعَجِيبَةُ - جس چیز پر تعجب کیا جائے۔

ج - عَجَائِبُ -

الْأَعْجُوبَةُ - جس چیز پر تعجب کیا جائے۔

مِنَ الْبَيَاقِ - موٹی اونٹنی۔

رَجُلٌ تَعْجَابَةٌ - عجیب باتوں والا۔

التَّعَاجِيبُ - عجائبات، اس کا واحد تَعْجِيبٌ

الْعَجْدَةُ - کوا - ج - عَجْدٌ -

الْعَجْدُ وَالْعُجْدُ - انگور کا دانہ خشک

انگور کا دانہ۔

عَجْرُونَ، عَجْرًا عُنُقًا - گردن موڑ دینا

- بِالسَّيْفِ - تلوار سے حملہ کرنا۔

الْقَاضِي عَلَيْهِ - قاضی کا تھوڑے سے

روک دینا - بِالْعَصَا - لاکھی مار کر

بڑھی ڈال دینا - الشَّيْءُ - پھاڑ دینا۔

ر - عَجْرًا وَعَجْرًا نَاوَعًا - خوف

سے جلدی گذرنا۔

عَجْرُ (س) عَجْرًا - موٹا ہونا - بڑے پیٹ

کا ہونا - صفت أَعْجَرُ - الفرس

موٹا ہونا - سخت ہونا۔

تَعْجَرُ - بٹھنڈا - موٹا ہونے کی وجہ سے

پیٹ کا سلوٹ دار ہوجانا۔

أَعْتَجَرُ - عامہ لہجہ میں أَعْتَجَرَتِ الْمَرْأَةُ

اور بھنی ڈال لینا۔

الْعُجْرُ - اُبھار جسم کی مقدار۔

الْعُجْرَةُ - گرہ ردھا کے، لاکھی یا رگوں

کی، کہتے ہیں "ذُكِرَ عُجْرَةٌ وَبُجْرَةٌ"

اس کے عیوب بیان کر دیے، سب ظاہر

و پوشیدہ باتیں کہہ دیں۔

الْعُجْرُ - ایک قسم کا خربوزہ۔

الْأَعْجُرُ - بڑے پیٹ والا بہت بھرا ہوا۔

کُتِرَ مُنْثُ عَجْرًا - ج - عَجْرٌ -

الْعَجْرَاءُ - گرہ دار عصا۔

الْعَجَارُ - گوندھے ہوئے آٹے کا پیڑہ کھانوالا۔

الْعَجَارِيزُ - گندھے ہوئے آٹے کے

پیڑے۔

الْعُجْرُورُ - ہوا کی وجہ سے ریت کی دھاری۔

ج - عَجَارِيزُ -

الْمُعْجَرُ - عورت کے سر پر باندھنے کا کپڑا۔

الْمُعْجَرُ - بندھا ہوا عامہ۔

عَجْرَدَةٌ - ننکا کیا۔

تَعَجْرَدٌ - ننکا ہونا - صفت مَعَجْرَدٌ -

الْعَجْرُدُ - ہلکا پھلکا، تیز سخت، عضو ناسل۔

الْعَجَارِدُ - عضو ناسل۔

الْعَجْرُدُ - بہادر - ننکا۔

الْعَجْرُدُ - بدگو عورت۔

تَعَجْرَفَهُ - تکبر کرنا - سرکش کرنا۔

الْعُجْرَفَةُ - غرور - کلام میں اکھڑیں ہونا۔

کہتے ہیں "فِي الْحَمَلِ عَجْرَفَةٌ" دے

تَعَجْرِفَتُهُ - اونٹ چلنے میں بے پروا۔

عَجَارُفُ الدَّهْرِ وَعَجَارِيفُهُ - مصائب۔

سختیاں - عَجَارُفُ الْمَطَرِ و

عَجَارِيفُهُ - بارش کی شدت۔

عَجْرَمُ الرَّجُلِ - تیز دوڑنا۔

الْعُجْرَمُ - العُجْرَمُ - سخت آدمی۔

الْعُجْرَمَةُ - اونٹوں کا ریوڑ تنوکا دوسو کا

یا پچاس سے دوسو تک کا۔

عَجْرَتُ (ر) عَجْرَتُ (ك) عَجْرَتَا

الْمَرْأَةِ - عورت بوڑھی ہو گئی۔

عَجْرُ (ر) عَجْرُ (س) عَجْرًا و عَجْرًا

و عَجْرًا نَاوَعًا و مَعَجْرًا و مَعَجْرًا

مَعَجْرَةً و مَعَجْرَةً - عَنْ كَذَا -

قادر نہ ہونا - طاقت نہ رکھنا - عاجز ہونا

کہتے ہیں "عَجَزَ فُلَانٌ عَنِ الْعَمَلِ"

بوڑھا ہو گیا - قدرت نہیں رکھتا - صفت

عَاجِزٌ - ج - عَوَاجِزٌ و عَجِزٌ -

عَاجِزَةٌ - عاجز کر دینا ہجر کی طرف منسوب کرنا۔



روک دینا۔ المرأة۔ بوڑھی ہونا۔
 عَاجِزَةٌ۔ عاجز کر دینا۔ عاجز پانا۔ اَعْجَزَهُ
 الشيءُ۔ چیز قبضہ سے نکل جانا۔
 اَعْجَزَ فِي الْكَلَامِ۔ مقصود کو اچھے
 طور پر ادا کیا۔
 عَاجِزَةٌ مُعَاجِزَةٌ۔ مسابقت کرنا۔
 عَاجِزُ الدُّجُلِ۔ عاجز ہونا۔
 تَعَجَّزُ۔ عجز کا دعویٰ کرنا۔ البعيرُ۔
 اونٹ کے چوڑے پر سوار ہونا۔
 اِسْتَعْجَزَهُ۔ عاجز پانا۔
 الْعُجُزُ۔ تلوار۔ د۔ وَالْعُجُزُ وَالْعُجُزُ
 وَالْعُجُزُ وَالْعُجُزُ بَعْجَا حَصِّهِ سُرِّينَ
 عُجُزٌ بَيْنَ الشَّعْرِ۔ مصرع ثانی۔
 ج۔ اَعْجَازُ۔ نَبَاتُ الْعُجْزِ۔ تیر۔
 اَعْجَازُ النَّخْلِ۔ کھجور کے درخت
 کی جڑیں۔ کہتے ہیں۔ رَكِبَ اَعْجَازُ
 الْاَبْلِ۔ ذلت و مصیبت میں مبتلا
 ہوا۔
 رَجُلٌ عَجُوزٌ وَعَجُزٌ۔ عاجز مرد۔ کہتے
 ہیں۔ "هُوَ عَجُزَةٌ اَبِيهِ وَعَجُزَةٌ"
 وہ اپنے باپ کا آخری لڑکا ہے دند کرو
 مؤنث واحد جمع، وَلِدَا يَعْجُزَةٍ۔
 والدین کے بوڑھا ہونے پر پیدا ہوا۔
 الْعِجَازُ وَالْعِجَازَةُ۔ وہ پٹھا جس سے
 تلوار کے درتہ کو باندھتے ہیں۔
 الْعِجَازَةُ وَالْاِعْجَازَةُ۔ وہ گدی جس کو
 عورتیں سُرین پر موٹا معلوم ہونے کے
 لیے باندھتی ہیں۔
 الْعُجُزُ۔ بڑھیا۔ ج۔ عَجُزٌ وَعَجَائِزُ
 الْعُجُزُ۔ شراب، مصیبت، کشتی۔
 راستہ بڑھی، کمان۔ آگ۔ موت، کھجور
 کا درخت، اونٹنی، سوئی، زمین، خرگوش
 شیر، ہر چیز کا بزر۔ کنواں۔ دریا۔ بہاؤ
 گائے، سوداگر، ڈھال۔ توبہ، بیل، بھوکا
 تیروان۔ بڑا پیالہ۔ بھوک۔ دوزخ۔

لڑائی، نیزہ، بخار، خیمہ۔ آفتاب کا مالہ،
 عورت کی قمیص، دنیا۔ بھیڑ یا جھنڈا۔
 گدھ، رعشہ، گھوڑی، فلک، گھی، گرم ہوا
 برس۔ آفتاب، خط، باڑ، حجرہ، بجو
 گور خر مادہ۔ بجو۔ بچھو۔ چاندی، قبلہ،
 مشک، دیگ کا پایہ۔ پادشاہ، داہنا
 ہاتھ، تلوار کی دھار۔ عافیت، پرہیزگاری
 قبضہ، تلوار کی میخ۔ اِیَامُ الْعُجُزِ۔ جاٹے
 کے آخری سات دن سخت سردی
 والے، جس کے چار دن آخر فروری
 میں اور تین دن مارچ میں ہوتے ہیں۔
 عوام ان کو مُسْتَقْرِضَاتُ کہتے ہیں۔
 ان دنوں کے نام یہ ہیں:۔ صَبْرٌ۔
 صَبْرٌ، وَبَرٌ۔ اَمْرٌ۔ مَوْتِمِرٌ،
 مُعَلِّلٌ، مُطْفِئُ الْجَمْرِ یا مُكْفِی
 الطَّلَعِ۔
 الْاَعْجَازُ۔ بڑے سرین والا۔ کَبِشُ اَلْعُجُزِ۔
 بھری ٹھیلی۔
 الْعَاجِزُ۔ فاجہ، عَوَاجِزُ۔ ثَوْبٌ عَاجِزٌ
 تنگ جامہ۔ اَمْرٌ اَقَا عَاجِزٌ و
 عَاجِزَةٌ۔ عاجز عورت
 الْعُجْزَاءُ۔ مؤنث اَعْجَازُ۔ ریت کا
 اونچا ٹیلہ۔
 الْوَعُجُزُ۔ پیالہ۔
 الْيَعْجَازُ۔ راہ۔ ہمیشہ عاجز رہنے والا۔
 الْمُعْجِزَةُ۔ وہ خارق عادت بات جس
 کو اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر
 کرے اور دوسرے وہ کام نہ کر سکیں۔
 ج۔ مُعْجِزَاتٌ۔
 الْمَعْجُوزُ۔ مم۔ جس سے سوال کرنے میں
 اصرار کیا جائے۔
 الْعَجِيزَةُ۔ عورت کا سرین، مرد کے لیے
 بھی آتا ہے۔ ج۔ عَجِيزَاتٌ۔
 عَجَسَ رَضٍ، عَجَسَا۔ عَنْ حَاجَتِهِ۔ باز
 رکھنا۔ عَجَسَ عَلَى الشَّيْءِ۔ مضبوطی

سے پڑنا۔
 تَعَجَّسَ۔ پیچھے ہٹنا۔ الامر کسی کام کے
 دیر سے ہونا۔ پیچھا کرنا۔ بالقوم۔ دیر
 کرنا۔ تَعَجَّسَ۔ راوی کو کمزور
 سمجھنا۔ تَعَجَّسَ عَنْ حَاجَتِهِ۔
 ضرورت سے روکنا۔
 الْعُجْسَةُ۔ رات کی اندھیری۔ رات کی
 ایک گھڑی۔
 الْعُجُوسُ۔ بوجھل بادل مسلسل بارش۔
 الْعَجَاسَاءُ۔ اونٹوں کا بڑا ریوڑ۔
 الْمَعْجُصُ۔ کمان کا قبضہ۔
 عَجَجَعَه عَجَجَعَةً۔ بہت چیخنا۔
 الْعُجَجَاعُ۔ بہت چیخنے والا۔ مِنَ الْخَيْلِ۔
 امیل گھوڑا۔ کہنہ سال گھوڑا۔
 الْعَجَجَعَةُ۔ چیخ۔ ج۔ عَجَاجٌ۔
 عَجَفَ دَنٌ، عَجُوفًا۔ کھانا چھوڑ دینا۔
 عَجَفَ رَضٍ، عَجَفًا وَعُجُوفًا وَعَجَفَ۔
 نَفْسُهُ عَنِ الطَّعَامِ۔ بھوک کے
 باوجود دوسروں کو کھانے کی خاطر بھوکا
 رہنا۔ نَفْسُهُ عَلَى الْمَرِيضِ۔ مہر
 کے ساتھ تیمارداری کرنا۔ نَفْسُهُ
 عَلَى فُلَانٍ۔ گراہی کو برداشت کرنا۔
 اور مواخذہ نہ کرنا۔
 عَجَفَ دَنٌ، وَاعْجَفَ الدَّابَّةُ۔ جانور
 کو لاغر کر دینا۔ اعْجَفَ الْقَوْمُ۔ دُبلے
 جانوروں کا مالک ہونا۔ عَجَفَ عَنْ
 فُلَانٍ۔ دور کرنا۔ اعْجَفَ بِنَفْسِهِ
 عَلَى الْمَرِيضِ۔ مہر کے ساتھ تیمارداری
 کرنا۔
 عَجَفَ دَسٌ، عَجَفَ دَكٌ، عَجَفَ۔ کمزور ہونا
 دُبلنا ہونا۔ صفت مذکر عَجَفٌ وَاعْجَفَ۔
 مؤنث عَجَفَتْ عَجَفَاءً۔ ج۔ عَجَافٌ
 - ابدال۔ بارش نہ ہونا۔ کہتے ہیں۔
 "نَزَلُوا فِي بِلَادٍ عَجَافٍ" غیر بارش شد
 شہروں میں اترے۔

عَجَفَ - الرجلُ آسودگی کے ساتھ کم کھانا
نَفْسَهُ عَنِ الطَّعَامِ - کھانا چھوڑ دینا۔
الرَّجَافُ - انداز، زمانہ۔ عَجَفَاؤُ کی جمع
خلاف قیاس۔

التَّعَجُّفُ - تنگ حالت۔
العَجِيفُ - لاغر، دُلا۔ ج۔ عَجْفِي۔
عَجِلَ رَسٌ عَجَلًا وَعَجَلَةً - جلدی کرنا۔
کتے ہیں "عَجِلْ بِهِ إِلَيَّ" - ایک کام
سے دوسرے کی طرف جلدی کی۔ الامر
دیر سمجھ کر دوسرا کام کرنا۔

عَجَلَ - جلدی کرنا۔ ۱۔ سبقت کرنا۔ براگینختہ
کرنا۔ ۲۔ لَهْ مِنَ الشَّمْسِ کذا - پیش کرنا۔
- اللَحْمَ - گوشت کو جلدی پکانا۔
أَعَجَلَهُ - سبقت کرنا۔ براگینختہ کرنا۔ أَعَجَلَ
الشَّيْءَ - جلدی کرنا۔ أَعَجَلْتِ -
الناقَةَ - قبل از وقت بچہ جننا۔
عَاجَلَهُ مُعَاجَلَةً - بِذَنْبِهِ - جلدی
مواخذہ کرنا اور سزا دے دینا۔ بِضَرْبَةٍ
مارنے میں سبقت کرنا۔ اور آگے
بڑھ جانا۔

تَعَجَّلَ - فی الامر - جلدی کرنا۔ الامر -
جلدی کام کرنا۔

اِسْتَعْجَلَهُ - براگینختہ کرنا۔ جلدی کرنے کا حکم
دینا۔ سبقت کر کے آگے بڑھ جانا۔

العَجْلُ - بھڑا۔ ج۔ عَجُولٌ - عَجَلَةٌ - عَجَالٌ -
العَجَلَةُ - بھیا۔ رہٹ۔ ج۔ عَجِلٌ و
عَجَالٌ۔

العَجْلُ وَالْعَجَلَةُ وَالْعَجَالَةُ - جو کام
جلدی کیا جائے۔ جو کھانا موبود ہو۔ مہمان
کے لیے جو کچھ جلدی تیار کیا جائے۔

العَجَلَةُ - جلدی، لمکا پن۔ گارا، کیچڑ۔
سلمان لاؤنے کی گاڑی۔ رہٹ۔ ج۔

عَجَلٌ وَعَجَالٌ وَأَعْجَالٌ -
العَاجِلُ - العَجِلُ العَجِلُ - جلد باز۔

العَاجِلَةُ - مونٹ عَاجِل - دنیا۔

العَجُولُ - بھڑا۔ ج۔ عَجَائِلُ۔

العَجَلَانِ - مونٹ عَجَلِي - ج۔ عَجَالِي و
عَجَالِي وَعَجَالٌ - العَجُولُ - ج۔

عَجَلٌ وَالْعَجِيلُ - ج۔ عَجَالٌ۔
جلد بازی کرنے والا۔

العَجُولُ وَالْعَجَالُ - بہت جلد باز۔
العَجُولُ - موت۔ بچے کو کھو دینے والی

الھڑ عورت۔
العَجِيلُ - ناشتہ، پانی، جو مہمان کے لیے
فوراً لایا جائے۔

العَجِيلَةُ - العَجِيلُ العَجِيلُ - تیز چال
کتے ہیں "سَارَ الْعَجِيلُ" - تیز چال چلا

اس کا ضد هُوَ بَيِّنَا ہے۔
العَجَالُ - براگینختہ کرنے والا۔ سبقت لے

جانے والا۔ ج۔ مَعَاجِيلُ - مَعَاجِيلُ
الطَّرِيقِ - مختصر راہیں۔ امْرَأَةٌ

مِعْجَالٌ - قبل از وقت بچہ جننے والی
عورت۔ طَرِيقٌ مُسْتَعْجَلَةٌ - مختصر

راستہ، قریب کا راستہ۔
عَجَمَ دَنَ عَجْمًا وَعَجْمًا - العُودَ دَنَ

سے کاٹ کر لکڑی کی سخت یا نرمی معلوم کرنا
- السیف - تجربہ کے لیے تلوار کو حرکت

دینا۔ الشَّيْءَ - امتحان کرنا۔ آزمائش
کرنا۔ صفت عَاجِمٌ - ج۔ عَجَمٌ۔

عَجَمًا - اَلکِتَابِ اَوِ الحُرُوفِ -
نقطہ لگانا۔ اَلکِتَابِ حُرُوفٍ پُر اچھی

طرح وقف نہ کرنا۔
عَجَمَتُهُ الْأُمُورُ - عادی بنانا۔ کتے ہیں۔

"مَا عَجَمَتُهُ عَيْنِي مُنْذُ كَذَا فَلَا
وَقْتُ سَے نہیں دیکھا۔" رَأَيْتُ

فَلَانًا فَعَجَلْتُ عَيْنِي تَعَجُّمَهُ
كَأَنَّهَا تَعْرِفُهُ وَعَجَمَ عُوْدَ

فُلَانٍ - اس کی آزمائش کی۔ اور
حال کی تحقیقات کی۔

أَعَجَمَ وَعَجَمَ - اَلکِتَابِ - اعراب نہ

لگانا۔ نقطہ اور حرکات لگا کر یا تفسیر کر
کے ابہام کو دور کرنا۔ أَعَجَمَ الْبَابَ -

دروازے میں تالا لگانا۔ اَلکَلَامَ - عجمی
زبان میں بات کرنا۔

عَجَمَ دَنَ عَجْمَةً - کنت کا ہونا۔ صفت
أَعَجَمَ - مُونٹ عَجْمَاءُ - ج۔ عَجْمٌ۔

عَاجِمَةٌ - تجربہ کرنا۔ کتے ہیں "عَاجِمْتُ
الْأُمُورَ وَعَاجِمَتُنِي" - میں نے معاملہ

کی آزمائش کی اور معاملات نے میری۔
تَعَاجَمَ - القَوْمُ - کنا یہ کرنا۔ تور یہ کرنا۔

الرَّجُلُ - اجنبی ہونا۔ عجمی ظاہر کرنا۔
أَلْعَجَمَ عَلَيْهِ اَلکَلَامَ - دشوار ہونا۔

مہم ہونا۔
اِسْتَعْجَمَ - عاجزی کی بنا پر خاموش ہونا۔

الْقُوَّةَ - پڑھنے پر قادر نہ ہونا۔
عليه اَلکَلَامَ - کلام دشوار ہونا۔ مہم ہونا

العَجْمُ وَالْعُجْمُ - دُم کی جڑ۔
العَجْمُ - فارس۔ فارسی لوگ (وَالْعَجْمُ

غیر عرب۔
العَجْمُ وَالْعُجَامُ - چھوڑے کی گھٹی گھٹی۔

کتے ہیں "لَيْسَ لِهَذَا الثَّمَانِ -
عَجْمٌ - واحد عَجْمَةٌ وَعُجَامَةٌ۔

العَجْمَةُ - خرما کا درخت۔
العَجْمَةُ - اسم مَرَّةٍ - سخت چٹان۔ ج۔

عَجَمَاتٌ -
العُجْمَةُ وَالْعُجْمَةُ - ابہام کھول کر بیان

نہ کرنا۔ ریت کا ڈھیر۔
الْأَعْجَمُ - غیر عربی، اگرچہ فصیح عربی بولتا ہو۔

جو صاف کھول کر بیان نہ کرے، اگرچہ
عربی ہو۔ گونگا۔ ج۔ أَعْجَمُونَ -

أَعْرَجُ -
العُجْمَاءُ - مُونٹ أَعْجَمٌ - چوپایہ۔ ج۔

عَجَمَاتٌ - ریت کا ٹیلہ جس میں
درخت نہ ہو۔

الْأَعْجَامُ - غیر عرب۔



الْعَجَامُ - بڑی چمکاوڑ۔
 الْأَعْجَبِيُّ وَالْعَجَبِيُّ - غیر عرب، جو عجم کی جانب منسوب ہو۔
 الْعَوَاجِمُ - دانستہ مفرد - عاچمہ۔
 رَجُلٌ صُلْبٌ الْمَعْجَمِ - جو شخص آزمائش کے وقت سخت ہو۔
 الْمَعْجَمُ - مفع - مصدر می - حروف تہی -
 بَابٌ مُعْجَمٌ - بند دروازہ - مفت کی کتاب کو معجم کہتے ہیں کہ وہ ابہام کو دور کرتی ہے۔
 عَجَنَ دَنَضٌ، عَجَنًا - الدَّقِيقُ - آٹا گوندھنا۔
 - عَلَى الْعَصَا - لاطھی پر ٹیک لگانا۔
 الرَّجُلُ بِأَهْوَالٍ بِرُيْكَ لَكَرَاهَتَا -
 صِفَتٌ عَاجِئٌ - ج - عَجْنٌ - کہتے ہیں فَلَانٌ عَجْنٌ وَخَبْرٌ - یعنی بوڑھا ہو گیا۔
 أَجْنٌ - الرَّجُلُ - کہنہ سال ہو جانا۔
 لَا عَتَجَنَ الدَّقِيقُ - آٹا گوندھنا - فَلَانٌ -
 خمیر بنایا۔
 تَعَجَّنَ الشَّيْءُ - گندھ جانا - خمیر ہو جانا۔
 الْعَجْنُ مِنَ الْجَمَالِ - موٹا اونٹ۔
 الْعَجْنَاءُ - کم دودھ والی اونٹنی - بہت موٹی اونٹنی۔
 الْيَحْيَيْنُ - گندھا بڑا آٹا - بیسجڑا - ج - عَجْنٌ۔
 الْعَجْنُ - ڈھیلے بدن والا (مذکر و مؤنث)۔
 الْعَجِينَةُ - گندھے آٹے کا پیڑا - بیسجڑا۔
 بِوَقُوفٍ - جماعت - اُمٌّ عَجِينَةٌ - گندھ۔
 الْيَعَانُ - گردن - سُرِن - ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ - خصیتین (اور مقعد کا درمیانی حصہ - ج - عَجْنٌ وَاعْجِنَةٌ۔
 الْعَجَانُ - بہت آٹا گوندھنے والا - بیوقوف۔
 عَاجِنَةُ الْمَكَانِ - مکان کا درمیانی حصہ۔
 الْيَعَجْنُ وَالْمَعْجِنَةُ - آٹا گوندھنے کا برتن۔
 عَجَجَهُ بَيْنَهُمَا - جدائی کر دینا۔
 تَعَجَّجَهُ - جاہل بننا - الامور - ملتبس ہونا۔
 الْعَجَاهُنْ - سب - غیر خالص النسب خدام

باورچی - ج - عَجَانِيَّةٌ۔
 عَجَا يَعْجُو عَجْجًا - البعير - اونٹ کا بلبلانا اور سرکش ہونا - عَجَّتِ الْأُمُّ الْوَلَدَ - بچہ کو مدت رضاعت کے بعد دودھ پلایا - فَلَانٌ فَاءٌ - منہ کھولنا۔
 عَجَاهُ اللَّبَنُ - دودھ کا غذا ہونا۔
 کہتے ہیں: لَقِيَ فَلَانٌ مَا عَجَاهُ -
 سختی میں مبتلا ہونا - (و عَاجَى الْوَلَدَ) -
 علاوہ ماں کے کسی دوسری عورت کا دودھ پلانا یا دودھ روک کر غذا دینا۔
 عَجَاوَعَجِي - وَجْهَهُ - منہ ٹیڑھا کرنا۔
 عَجِي دَسٌ، عَجِي - الصَّبِيُّ - دودھ کے علاوہ کسی اور چیز سے پرورش پانا۔
 الْعَجِي - ماں کو کھودینے والا - اور دوسری کے دودھ سے پرورش پانے والا - مَوْنَتٌ عَجِيَّةٌ - ج - عَجَايَا۔
 الْعَجِي - وہ بچہ جس کی ماں نے مدتِ رضاعت کے بعد دودھ پلایا ہو - وہ بچہ جس نے دوسری عورت کے دودھ سے پرورش پائی ہو - مَوْنَتٌ عَجِيَّةٌ - ج - عَجَايَا وَعَجَايَا۔
 الْعَجْوَةُ وَالْعَجَاوَةُ - عمدہ قسم کی کھجور۔
 الْعَجَاوَةُ وَالْعَجَاوَةُ وَالْعَجْوَةُ - وہ دودھ جو یتیم کو پلائیں۔
 عَجَّتْ لَعْلَى - عَجَبًا - الْمَرْأَةُ صَبِيحًا - عورت نے بچہ کو دودھ پلایا۔
 الْعَجَابَةُ وَالْعَجَابَةُ - عمدہ قسم کی کھجور۔
 عَجِي وَعَجِي وَعَجَايَا - جانور کے بندوبست کا پٹھا - ج -
 عَدَدَن، عَدَدًا وَتَعَدَدًا - الشَّيْءُ - شمار کرنا گننا - گمان کرنا - کہتے ہیں -
 "عَدَدْتُ زَيْدًا صَادِقًا" - میں نے زید کو سچا گمان کیا۔
 عَدَدٌ - الْمِلَّةُ - مرنے کی خوبیاں بیان کرنا شمار کرنا - الشَّيْءُ - شمار کیا - عدد والا

کردینا - المال - زمین کے لیے سازو سامان بنانا۔
 أَعَدَّه لِلْأَمْرِ - تیار کرنا - حاضر کرنا۔
 عَادَهُ عَدَادًا وَمُعَادَةً - لڑائی میں مقابلہ کرنا - الشَّيْءَ الْقَوْمَ - چیز کو قوم پر برابر برابر تقسیم کرنا۔
 تَعَدَّدَ وَتَعَادَ - عدد میں زیادہ ہونا - کہتے ہیں: هُمْ يَتَعَدَّدُونَ وَيَتَعَادُونَ عَلَى الْفَيْءِ - وہ ہزارے نامد ہیں۔
 اَعْتَدَ - شمار ہونا - "هَذَا شَيْءٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ" - یہ ایسی چیز ہے جس کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور التفات نہیں کیا جاتا - لَا اَعْتَدَ الْاُمَمُ تَجَارَةً - معاملہ کو تجارت سمجھنا - عام لوگ کہتے ہیں - "لَا اَعْتَدَ بِنَفْسِي" - اپنے نفس پر اعتماد کیا۔
 اِسْتَعَدَّ - لِلْأَمْرِ - تیار ہونا۔
 الْعَدَدُ - شمار - گنتی - گنا ہوا - مِنَ الْاِنْسَانِ آدمی کی عمر کے سال - ج - اَعْدَادُ۔
 الْعِدَادُ - عطا - دیوانگی کا اثر - ہمسرہ حریف موت کا وقت - پیشی کا دن - مکان کی آواز - شمار - کہتے ہیں: هُوَ فِي عِدَادِهِمْ - وہ بھی ان میں ہے۔
 (وَالْعِدَادُ مِنَ الْوَجْعِ - وقت مقررہ پر درد کا بڑھنا - کہتے ہیں: يَهْ مَرَضُ عِدَادٍ - اس کا مرض وقت مقررہ پر لوٹتا ہے۔
 الْعِدُّ - وہ جاری پانی جو منقطع نہ ہو - کثرت - کہتے ہیں: هَذَا بَرَضٌ مِنْ عِدٍّ - یہ بہت سارے میں سے ٹھوڑا سا ہے۔
 پُرانا کنواں - ہمسرہ - کہتے ہیں: هُوَ عِدَاكَ - وہ تمہارا ہمسرہ ہے - ج - اَعْدَادُ۔
 الْعِدَّةُ - جماعت - چند - تعداد - کہتے ہیں: "عِنْدِي عِدَّةٌ كُتُبٌ" - میرے پاس چند کتابیں ہیں - عِدَّةُ الْمَرْأَةِ - عورت کی طلاق یا شوہر کی وفات پر سوگ کا

زمانہ۔ جر۔ عِدَدٌ۔

الْعِدَّةُ۔ تیاری کہتے ہیں۔ "كُونُوا عَلَى عِدَّةٍ" تیار ہو۔ سامان جنگ وغیرہ۔
کہتے ہیں "أَخَذَ لِلْمَرْءِ عِدَّتَهُ" معاملے کے لیے سامان لے لیا۔ جر۔ عِدْدٌ۔
(۔ والعِدُّ) ہمسے۔ وہ پھنسیاں جو چہرے پر نکلتی ہیں۔

الْعِدَانُ وَالْعِدَائُ۔ کسی چیز کا زمانہ یا موسم یا زمانے کا اول اور بہتر حصہ کہتے ہیں۔ "كَانَ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ الشَّبَابِ" وہ عہد ان کی ملکیت۔ جر۔ عِدَائِيں۔
الْعِدْدِيّ۔ منسوب عدد کی طرف۔ جو چیز گنتی سے بچی جائے۔

الْعِدِيدُ۔ شمار۔ عدد۔ کہتے ہیں۔ "مَا أَكْثَرَ عِدِيدَهُمْ" ان کا شمار کس قدر زیادہ ہے۔ شمار کیا ہوا۔ ہمسے۔ ہم مثل۔ حصہ۔ کہتے ہیں "هَذِهِ الدَّرَاهِمُ عِدِيدُ هَذَا" یہ درہم اس کی مقدار میں ہیں۔
الْعِدِيدُ مِنَ الْقَوْمِ۔ جو شخص قوم میں شمار کیا جائے۔ ایام عِدِيدَةٌ۔ چند دن۔ جر۔ عِدَائِدُ۔

الْعِدَائِدُ۔ بہت سے ہم مثل۔ تقسیم کردہ مال، میراث۔

الْعِدِيدَةُ۔ حصہ۔

الْمُعِدَّةُ۔ فا۔ پورے سامان والا۔
عَدَدُنْ، عَدْرًا وَعَدْرَةً۔ جرات کرنا دلیری کرنا۔

عِدْرَ دَسْ، عَدْرًا وَعَدْرًا۔ المکان پانی زیادہ ہونا۔ عَدْرًا لِمَطَرٍ۔ بکثرت برسنا۔

الْعَادِرُ۔ فا۔ جھوٹا۔ پھسلنے والا۔
الْعَدَارُ۔ ملحق۔

الْعَدْرُ وَالْعَدْرُ۔ کثیر موسلا دھار بارش۔
عَدَسَةٌ (رض) عَدَسًا۔ خدمت کرنا۔
عَدَسُ الْمَوَاشِي۔ جانوروں کو چرانا۔

الْشَّيْءُ سَخَتْ رَوْنَدًا۔ عَدَسًا وَ عَدَسًا سَا، عَدَسًا، عَدَسًا۔ فی الارض۔ جانا۔ کہتے ہیں "عَدَسْتُ بِهِ الْمَيِّتَةَ" اسے موت لے گئی۔
عَدَسٌ بھنسیوں والا ہونا۔ صفت مَعْدُوسٌ۔ عَادَسَ الرَّجُلُ۔ ہمیشہ سفر میں رہنا۔
الْعَدَسُ۔ مسور۔ واحد۔ عَدَسَةٌ۔
الْعَدَسَةُ۔ پھنسی۔ الْعَدَسَةُ۔ و الْعَدَسِيَّةُ۔ عِنْدَ عِلْمَاءِ الطَّبِيعَةِ شَيْءٌ كَمُطَرٍ جَوْ بِطُورِ آتِ نَظَرِ اسْتِعْمَالِ كَيْفَ جَاتِے ہیں۔

عَدَسٌ۔ اسم صوت۔ نچرنا نکلنے کے واسطے نام۔ نچر۔

عَدَفْتُ (رض) عَدْفًا، تَعَدَفْتُ۔ تھوڑا کھانا۔ کہتے ہیں "مَا عَدَفْتُ أَوْ مَا تَعَدَفْتُ الْيَوْمَ" میں نے آج تھوڑا سا بھی نہیں کھایا۔ چہ جائیکہ بہت سا۔
اَعْتَدَفْتُ الثَّوْبَ۔ کپڑے کا ٹکڑا لینا۔
الْعَدْفُ۔ تھوڑا سا عطیہ۔ تھوڑا چارہ۔

کہتے ہیں "مَا ذُقْنَا عَدْفًا، عَدْفًا، عَدْفًا، عَدْفًا، عَدْفًا، عَدْفًا، عَدْفًا" کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں چکھی۔

الْعُدْفُ۔ تھوڑا چارہ۔ جر۔ عُدْفٌ۔
الْعُدْفُ۔ لوگوں کی جماعت، رات کا ایک حصہ۔

الْجِدْفَةُ۔ لوگوں کی جماعت، ہر چیز کا ٹکڑا۔ دس سے بچاس تک دس و الْعَدْفَةُ، زین کے اندر پیر کی جڑ۔ جر۔ عَدْفٌ۔

الْعِيدَفُ۔ ہر چیز کا ٹکڑا۔

عَدَقْتُ (رض) عَدَقًا وَعَدَقْتُ (رض) عَدَقًا وَعَدَقْتُ وَأَعَدَقْتُ۔ يَدَا۔ حوض یا کنویں کے کنارے میں ہاتھ ڈالنا، کسی چیز کی تلاش کے لیے۔ بِطَبَقَةٍ۔ کسی کام کو اپنی غالب رائے سے کرنا کہ

جس پر یقین نہ ہو۔

الْعَدَقَةُ۔ ڈول نکالنے کا کاٹا جو تین شانوں والا ہو۔ جر۔ عَدَقٌ۔

الْعَوْدُقُ وَالْعَوْدُقَةُ۔ ڈول نکالنے کا تین شانوں والا کاٹا۔ جر۔ عُدُقٌ۔

عَدَلْتُ (رض) عَدَلًا۔ الصُّوْفُ۔ اون کو دھننے کے واسطے ڈنڈے سے مارنا۔

الْمُعْدَاكَةُ۔ ڈنڈا۔ اون دھننے کا۔

عَدَلْتُ (رض) عَدَلًا۔ السَّهْجُ۔ تیر کو سیدھا کرنا۔ هَلَا نَافِلَانِ۔ برابری کرنا۔ بَرِّيَّةً۔ شرک کرنا۔ الطَّرِيقُ۔ ٹیڑھا ہونا۔ عَدَلْتُ وَ عَدَلْتُ الْبَيْتَ رَجْعًا کرنا۔ واپس ہونا۔ هَلَا نَا۔

موازنہ کرنا۔ هُوَ فِي الْمَحْصِلِ سَاوَةً ہونا کہا جاتا ہے "مَا يُعْدِلُكَ عِنْدِي شَيْءٌ" تمہارے مقابلہ کوئی چیز نہیں۔
ر۔ عَدَلْتُ وَ عَدَلْتُ وَ عَدَلْتُ وَ مَعْدَلَةٌ، انصاف کیا۔
مفت عَدَلْتُ۔ جر۔ عُدُولٌ۔

عَدَلْتُ (رض) عَدَلَةً۔ عادل ہونا۔ گواہی کے قابل ہونا۔

عَدِلْتُ (رض) عَدَلًا۔ ظلم کرنا۔

عَدَلْتُ الشَّاهِدَ۔ معتبر ماننا۔ الشَّعْوُ۔ شعر کو درست وزن پر کرنا۔ الْمَتَاعُ۔

سامان کو دو برابر حصوں میں کرنا۔ دو گٹھریاں بنانا۔ کہتے ہیں "شَرِبْتُ حَتَّى عَدَلْتُ" اس قدر پیاکہ پیٹ گٹھری کی طرح ہو گیا۔ ر۔ وَأَعْدَلْتُ، الشَّيْءُ۔ سیدھا کرنا۔ ہموار کرنا۔

عَادَلَهُ عَدَالًا وَمُعَادَلَةً۔ موازنہ کرنا۔

هُوَ فِي الْمَحْصِلِ سَاوَةً ہونا۔ فی الامور۔ مترادف ہونا۔ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ۔ برابری کرنا

کہتے ہیں "عَادَلْتُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ" جبکہ دو باتیں پیش آئیں اور سمجھ میں نہ آئے



کہ کس کو اختیار کریں۔ قَطَعَ الْعَدَالُ
فِي أَمْرِهِ۔ بچنے ارادہ کرنا۔

لَا تُعَدَّلُ۔ عَنِ الطَّرِيقِ۔ ہٹ جانا۔

لَا تُعْتَدَلُ۔ سیدھا ہوا۔ دو حالتوں میں
متوسط حال اختیار کرنا۔

الْعَادِلُ۔ فَا۔ مشترک۔ ج۔ عُدُولٌ۔

الْعَدْلُ۔ النِّصَافُ۔ عادل۔ کہتے ہیں۔

رَجُلٌ عَدْلٌ۔ اِمْرَأَةٌ عَدْلٌ وَ

عَدْلَةٌ وَرَجُلٌ عَدْلٌ۔ نَظِيرٌ شَيْءٍ

ج۔ اَعْدَالٌ۔ الْعَدْلُ۔ پیمانہ، بدلہ

معاملات میں اعتدال، برابری۔ اَمْرٌ

مُعْتَدِلٌ۔ سیدھا معاملہ۔

الْعِدَالُ۔ نَظِيرٌ شَيْءٍ۔ قیمت۔ کہتے ہیں۔

خَذْ عِدْلَكَ كَذَا اَوْ كَذَا۔ اس کی اتنی

قیمت لے لو۔ گون جانور کی پیٹھ پر ایک

طرح کا بوجھ۔ ج۔ عُدُولٌ وَ

اَعْدَالٌ۔

الْعَدْلُ۔ دو گونوں کی برابری۔

الْعَدْلَةُ وَالْعُدْلَةُ۔ معتبر گواہ۔ بعض

کے نزدیک عُدْلَةُ واحد ہے اور

عَدْلَةُ۔ جمع ہے۔

الْعَدِلُ۔ عادل۔

الْعَدِيلُ۔ نَظِيرٌ شَيْءٍ، رَدِيفٌ۔ ج۔

عُدْلَاءُ۔

الْاِعْتِدَالُ۔ برابری تناسب۔ الْاِعْتِدَالُ

الدریعی۔ رات دن کا برابر ہونا۔

موسم ریح میں۔ الْاِعْتِدَالُ الْحَرِيفِيُّ۔

موسم خریف میں رات دن کا مساوی

ہونا۔

الْمُعْدِلُ وَالْمُعْدُولُ۔ پھرنے کی جگہ کہتے

ہیں۔ مَالَهُ مُعْدِلٌ اَوْ مُعْدُولٌ

عَنْ كَذَا۔ اس کے لیے فلاں بات

سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اَخَذَ

مُعْدِلُ الْبَاطِلِ۔ باطل راہ اختیار

کرنا۔

مُعْدَلَاتُ الْبَيْتِ۔ گھر کے کونے۔

عَدِمَ دَس، عُدَّ مَا وَعَدَ مَا۔ المَالُ۔

گم کرنا نیست کرنا۔ کم کرنا۔ کہتے ہیں۔

”مَا يَعْدُ مَعْنَى هَذَا الْأَمْرِ“۔ یہ معاملہ

مجھ سے تجاوز نہیں کرتا۔

عَدِمَ رُكْ عَدَامَةً۔ بیوقوف ہونا۔

اَعْدَمَ اِعْدَامًا۔ الرَّجُلُ۔ محتاج ہونا۔

صِفَتُ مُعْدِمٍ وَعَدِيْلَةٍ۔ هَذَا الشَّيْءُ

مُحْرَمٌ كَرَدْنَا۔ اَعْبَرُ مَعْنَى الشَّيْءِ

چیز نہ پائی۔ اَعْدَمَ فَلَانًا۔ منع کرنا۔

الْعَدَمُ وَالْعُدْمُ وَالْعُدْمُ۔ فَقْدَانُ

الْعَدَمُ۔ نیستی۔

الْعَدِمُ۔ فقیر، محتاج۔

الْعَدِيْلُ۔ بیوقوف۔ دیوانہ فقیر۔ غیور ہونا۔

کہتے ہیں۔ هُوَ عَدِيْلٌ الشَّيْءِ اس

جیسا کوئی نہیں۔ ج۔ عُدْمَاءُ۔

ارَضٌ عُدْمَاءُ۔ دیران زمین۔

الْمُعْدُوْمُ۔ مفقوع۔ مندرجہ موجود۔

عَدَنَ رَضٍ عَدْنًا۔ الارضُ۔ زمین میں

کھا ڈالنا۔ الْحَجَرُ۔ اکھاڑا۔

عَدَنَ رَضٍ عَدْنًا وَ عُدْنًا۔

بِالْمَكَانِ۔ اقامت کی۔ البلاد۔ وطن

بنایا۔ اسی سے جَنَاتٌ عَدْنٌ ہے۔

عَدَنَ۔ الارضُ۔ کھا ڈالنا۔ الارضُ۔

زمین کھودی۔ الشَّارِبُ۔ پینے والا

سیر ہوا۔

عَدَنُ۔ یمن کے ایک شہر کا نام ہے۔

الْعَدَنِيُّ۔ منسوب عدن کی طرف۔ عمدہ

اخلاق والا۔

جَنَّةُ عَدْنٍ۔ بہشت کا نام۔

الْعَدَانُ۔ سمندر کا کنارہ۔ کنارہ دریا۔

الْعَدَانَةُ۔ گروہ۔ ج۔ عَدَانَاتُ۔ کہتے

ہیں۔ اَتَانَا عَدَانَاتُ۔ ہمارے پاس

مختلف گروہ آئے۔

الْعَدِيْنَةُ۔ ڈول کا پیوند۔

الْعِيْدَانَةُ۔ کھجور کا لمبا درخت۔ ج۔

عِيْدَانٌ۔

الْمُعْدِنُ۔ سونے وغیرہ کی کان۔ ہر چیز کا

منبع۔ گرمی سردی کا رہائشی مکان۔ کہتے

ہیں۔ فَلَانٌ مُعْدِنُ الْخَيْرِ فَلَانٌ

بھلائی کا منبع ہے۔ ج۔ مَعَادِنٌ۔

الْمُعْدَنُ۔ بھٹوڑا۔ وہ اوزار جس سے پتھر

نکالے اور توڑے جاتے ہیں۔

الْمُعْدِنُ۔ کان کھودنے والا۔ سونا

چاندی نکالنے والا۔

عَدَا يَعْدُو عَدْوًا وَعَدَا فَانًا، عُدْوًا

نَعْدَاءً وَعَدَا۔ دَوْرَانُ۔ عَدْوًا وَ

عُدْوَانًا، فَلَانًا عَنِ الْاَمْرِ۔ معاملہ

سے باز رکھنا۔ علیہ۔ حملہ کرنا۔ الْاَمْرُ

وَعَنِ الْاَمْرِ۔ چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں۔

”عَدَا طَوْرُهُ اَوْ قَدْ آتَا“۔ اس نے

مرتبہ سے تجاوز کیا۔ ر۔ عَدْوًا وَ

عُدْوًا اَوْ عَدَا عُدْوَانًا وَعَدْوَانًا

وَعُدْوِي، عَلِيْهِ۔ ظلم کرنا۔ کہتے ہیں۔

”مَا عَدَا اِمْتًا بَدَا“

عَدَا مًا۔ مصدریہ کے ساتھ یا اس کے بغیر

کلمہ استثناء ہے اور تمام احکام میں خلا

کی مانند ہے کہتے ہیں۔ ”جَاءَ الْقَوْمُ

عَدَا زَيْدًا وَعَدَا زَيْدًا“۔ نصب و جر

کے ساتھ۔ اور مَا عَدَا زَيْدًا۔ صرف

نصب کے ساتھ آتا ہے۔

عَدِي يَعْدِي عَدَا۔ يَفْلَانُ۔ بُغْضٌ

رکھنا۔ عُدِي عَلَيَّ فَلَانٌ۔ ظلم کیا گیا۔

مال چوری کیا گیا۔

عَدِي۔ عَنِ الْاَمْرِ۔ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں۔

”عَدَا عَدَا تَرَى“۔ اپنی نگاہ پھیر لے۔

فَلَانًا عَنِ الْاَمْرِ۔ کسی کو کسی معاملے

سے باز رکھا۔ الشَّيْءُ۔ نافذ کیا۔

الْفِعْلُ۔ فعل لازم کو متعدی بنایا۔

عَادَنِي عِدَاءً وَمُعَادَاةً۔ فَلَانًا جَحَظًا

کیا۔ دشمن ہوا۔ بَيْنَ الصَّيْدَيْنِ۔
ایک دوڑ میں دو شکار مارے۔ الشَّيْءُ۔
دور کیا۔

أَعْدَى۔ الرجلُ۔ دوڑ کے لیے اکسایا۔
فَلَانًا عَلَى فَلَانٍ۔ دوڑ کی۔ قوت
پہنچائی۔ الامر۔ معاملہ کی جانب
دوسرے کو بڑھایا۔ أَعْدَاهُ شَرًّا۔
شر پہنچایا۔ هُ مِنْ عِلَّةٍ اوْخُلِقَ۔
بیماری لگادی یا عادی بنایا۔ کہتے ہیں۔
”قَرَيْنُ السُّوءِ يُعْدِي قَوِيْنَهُ“۔ بُرَا
ساتھی بر شین کو برا بنا دیتا ہے۔
أَعْدَى عَلَيْهِ۔ ظلم کیا۔ فِي كَلَامِهِ
زیادتی کی۔

تَعْدَى۔ الشَّيْءُ۔ تجاوز کیا۔ علیہ۔ ظلم
کیا۔ الْفَعْلُ۔ متعدی ہوا۔ الشَّيْءُ
إِلَى اخْتَدَ۔ تجاوز کر آیا۔

تَعَادَى الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے سے دشمنی
کی۔ دوڑ میں مقابلہ کیا۔ الْوَجَلُ۔
دور ہوا۔ مَا بَيْنَهُمَا۔ اختلاف ہوا
فساد ہوا۔ الْمَكَانُ۔ ناہموار ہوا۔
تَعَادَتِ النَّوَابِیْتُ مَبِينَتِيں پے درپے
ہوئیں کہتے ہیں ”تَعَادَى الْقَوْمُ“۔
بیماری کی چھوت لگ گئی۔

أَعْتَدَى الْحَقُّ وَعَنِ الْحَقِّ وَفَوْقَ
الْحَقِّ۔ تجاوز کرنا۔ عَلَى فَلَانٍ ظَلَمَ كَذَا۔
اِسْتَعْدَى الْوَجَلُ۔ مدوطلب کرنا۔ الْفَوْسُ
گھوڑے کو دوڑانا۔

الْعَدَاؤُ مشغولیت۔ دوری۔ وَالْعِدَاؤُ
ایک دفعہ کی دوڑ۔ کہتے ہیں۔ عَدَا
الْفَوْسُ عَدَاؤَ وَعَدَاؤَ وَاجِدًا۔
ایک دوڑ لگائی۔ عَدَاؤُ الْوَادِي۔
وادی کا درمیان۔

الْعِدَاؤُ وَالْوِدَاؤُ۔ العدی۔ وہ چھوٹا
پتھر جس سے کچھ چھپایا جائے۔
الْعَدَى وَالْعَدَى۔ جانب۔ ج۔ أَعْدَاءُ

العدای۔ ج۔ اعداء۔ عدو یعنی دشمن۔ دو
ہونے والا۔ اسافرین۔ وادی کا کنارہ۔

العدی۔ عدو کا اسم جمع۔ بلند مقامات۔
العدوی۔ فساد۔ متعدی امراض۔

العداؤة۔ دشمنی۔ دوری۔
العداؤة۔ دور مقام۔ وَالْعَدَاؤَةُ وَ

العداؤة۔ بلند جگہ۔ وادی کا کنارہ۔
وادی کی ایک جانب۔ ج۔ عداؤ و

عداؤات۔
العداؤة۔ ایک مرتبہ کی دوڑ۔ وادی کا کنارہ۔

العداؤ و۔ سخت اور خشک زمین۔ دوری۔
مشغولیت۔ عداؤ و الشَّوْقُ۔ شدائد

و تکالیف شوق۔ عداؤ و الشَّغْلُ۔
شغل کے مواقع۔ کہتے ہیں ”طَالَتْ

عَدَاؤُهُمْ“ ان کا افراق اور دوری
بڑھ گئی۔

العداؤات۔ خالص ظلم۔ کہتے ہیں ”لَا عَدَاوَانَ
عَلَيَّ“ میرے اوپر کوئی مجال نہیں۔

العداؤان۔ تیز دوڑ۔ ذُئِبْتُ ذُو عَدَاوَانٍ۔
لاگو بھیڑ یا۔

العداؤ۔ تیز دوڑنے والا۔
عَدَى۔ ایک قبیلہ کا نام۔ وہ جماعت جو قتل و

قتال کے لیے تیار ہو۔
العداؤ۔ دشمن۔ ج۔ اعداء۔ جج اعداء۔

العداوی۔ خا۔ دشمن ظلم۔ حد سے بڑھنے
والا۔ اُچھٹے والا۔ چور۔ غیر۔ عادی

العداوی۔ ایسے ضروری کام جو دوسرے
کاموں سے باز رکھیں۔ ج۔ عداۃ۔

عادی الکوچر تختی کی دونوں جانبین۔
العدایة۔ عادی کا بونٹ۔ وہ جماعت جو

قتل و قتال کے لیے تیار ہو۔ لوٹنے والے
گھوڑے سوار دوری۔ مشغولیت۔ غصہ

کی تیزی۔ عادیۃ السَّوْءِ۔ زہر کا مضر
کہتے ہیں ”وَقَعْتُ عِنْدَ عَادِيَةٍ“
فُلَانٍ میں نے تجھ سے فلاں کا منر

دور کر دیا۔ ج۔ عواد۔ عَوَادِي الدَّهْرِ
گردشیں، مواقع۔ کہتے ہیں ”صَرَفْتُهُ

عَنْ كَذَا عَوَادًا“ اس کو مواقع نے
روک دیا۔

المعدی۔ گذرگاہ۔ کہتے ہیں ”هَالِي عَنِ
فُلَانٍ معدی“ میرے لیے فداں شخص

سے گذر جانے کی جگہ نہیں ہے۔
عَذَبَ (رض) عَذْبًا۔ سخت پیاس کی وجہ سے

کھانا کھانا چھوڑ دینا۔ صفت عَذُوْبٍ
وَعَذُوْبٍ۔ عنہ۔ باز رہنا۔ ۵۔

منع کرنا۔ عَذَبَ السُّوْطَ۔ کوڑے میں
پھندا لگانا۔

عَذَبَ رَسَ، عَذْبًا۔ الماءُ۔ کافی دار پانی
ہونا۔ صفت عَذْبٍ۔

عَذْبُكَ، عَذُوْبَةٌ وَعَذُوْبٌ۔ الشَّرَابُ
میٹھا اور خوشگوار ہونا۔

أَعَذَبَ۔ میٹھا پانی پر پہنچنا۔ کافی کوڑا کرکٹ
دور کرنا۔ النقوم۔ میٹھا پانی والی ہونا۔

اللَّهُ الْمَاءُ۔ میٹھا پانی کر دینا۔ عنہ۔
باز رہنا۔ ۵ عن الامر۔ منع کرنا۔

کہتے ہیں ”أَعَذَبَ نَفْسَكَ عَنْ كَذَا“
اپنے آپ کو اس سے روکو۔

عَذْبَةً۔ عذاب دیا۔ عَذْبَةً عَنِ الشَّيْءِ۔
منع کرنا۔ عَذَبَ السُّوْطَ۔ کوڑے میں

پھندا لگانا۔ الشَّيْءُ۔ روکنا۔
أَعْتَذَبَ۔ عمارے کے دو شعلے لگانا۔

اِسْتَعَذَبَ الشَّيْءُ۔ میٹھا اور خوشگوار پانا۔
میٹھا اور خوشگوار پانی طلب کرنا۔ کہتے

ہیں ”خَوَّجَ يَسْتَعَذِبُ الْمَاءُ“۔ میٹھا
پانی لانے کے لیے جانا۔ عَنْ كَذَا۔

باز رہنا۔
العَذْبُ۔ مہ۔ خوشگوار کھانا پانی۔ مَاءُ

عَذْبٍ۔ میٹھا پانی۔ العَذْبُ۔ ایک
قسم کا درخت۔
العَذْبُ۔ مہ۔ کوڑا کرکٹ، تنکا، ترازو کی





توبان درخت کی شاخیں۔ ہر شے کے اطراف عامر کا شعلہ۔ واحد عَذْبَةٌ۔ العَذْبَةُ تَنْكَارُ۔ والعَذْبَةُ وَالْعَذْبَةُ كَأَنَّهُ جَرَّ عَذْبَاتٍ۔ العاذِبُ۔ فا۔ وہ شخص جس کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حاصل نہ ہو۔ مِنَ الدَّوَابِّ۔ وہ جانور جو کھڑا ہو اور کھاتا پیتا نہ ہو۔ جَرَّ عَذْبُوبٍ۔ العَذْوَبُ۔ یعنی عاذِب۔ مِنَ الدَّوَابِّ۔ شدت پیاس کے سبب چارے کو نہ کھانے والا۔ العَذَابُ۔ بروہ شے جو انسان کے لیے باعث مشقت ہو۔ تکلیف، سزا۔ جَرَّ عَذْبَةً۔ عَذْبُ رَضٍ عَذْبًا۔ الماءُ۔ پانی پینا۔ فَلَائِنَا كَالِي دِيْنَا۔ المِعْدَبُ۔ غیر مند، بد اخلاق۔ بہت طاقت کرنے والا۔ عَذْرَةٌ رَضٍ عَذْرًا وَعَذْرًا وَعَذْرًا مَعْدَرَةٌ وَمَعْدَرَةٌ عَلَىٰ أَوْفَىٰ مَا صَنَعَ۔ الزام سے بری کرنا۔ عذر قبول کرنا۔ عَذْرَ رَضٍ عَذْرًا وَعَذْرًا۔ الفرسُ بالِعَذَارِ۔ گھوڑے کے پوری لگانا۔ الصَّبِيُّ الْعَاذُورُ۔ بچے کو درو حلق ہونا اور تکلیف پہنچانا۔ عَذْرُ الصَّبِيِّ۔ درو حلق ہونا۔ عَذْرُ۔ عذر کا ثابت نہ ہونا۔ لَا عَذْرَکَ فِی مِیَالِغِہِ کرنا۔ عَذْرُ الْعِلَامِ۔ لڑکے کے رخسار پر سبزہ اگنا، مس بھیگنا۔ الدَّارُ نَشَانَاتِ مِثْلَانِ۔ فِی الْأَمْرِ۔ کوشش کے بعد کوتاہی کرنا۔

أَعْدَرَةُ۔ فِی أَوْعَىٰ مَا صَنَعَ۔ الزام سے بری کرنا۔ الرجلُ۔ عذر ظاہر کرنا۔ مِنْ نَفْسِہِ۔ بکثرت گناہ کرنا۔ انصاف کرنا۔ فِی الْأَمْرِ۔ کوتاہی کرنا اور کوشش نہ کرنے کے باوجود کوشش والا سمجھنا۔ - الفرسُ۔ پوری ہاندھنا۔ الْعِلَامُ۔ لڑکے کی فتنہ کرنا۔ لَا فِی ظَہْرِہِ۔ مار کر بھی ڈال دینا۔ کہتے ہیں "ضَرْبُہُ حَتَّىٰ أَعْدَرَ مَعْتَنَہُ"۔ اتنا مارا کہ پیچ پر زخم کے نشان ڈال دیے۔ بِفُلَانٍ زخم کا نشان چھوڑنا کہتے ہیں "ضَرْبُ فُلَانٍ فَأَعْدَرَ"۔ مارتے مارتے ہلاکت کے قریب پہنچا دیا گیا۔ أَعْدَرْتُ الدَّارَ۔ بہت پلید ہونا۔ عَاذَرَہُ مَعَاذَرَةً۔ عذر ثابت نہ ہونا۔ تَعَدَّرَ عَلَیْہِ الْأَمْرُ۔ دشوار ہونا، باز رہنا۔ عَنِ الْأَمْرِ۔ پیچھے ہٹنا۔ الرَّسْمُ۔ مٹ جانا۔ الرجلُ۔ اپنے لیے حجت کرنا بھاگنا۔ الشَّيْءُ۔ پلیدی سے لٹھ جانا۔ فُلَانٌ مِنَ الذَّنْبِ۔ گناہ سے بری ہونا۔ لَعَنَتُہُ عَنْ وَمِنْ فِجْلِہِ۔ عذر بیان کرنا۔ عَنْ فُلَانٍ۔ کسی کے عذر قبول کرنے کو کہنا۔ الرجلُ۔ صاحب عذر ہونا۔ - البیہُ۔ عذر پیش کرنا۔ الرَّسْمُ۔ نشان کا مٹنا۔ لَمْتُعَدَرَ۔ البیہُ۔ عذر پیش کرنا۔ الْعَذْرُ۔ حجت جس کی بنا پر عذر کیا جائے۔ جَرَّ عَذْرًا۔ غلبہ کا میانی۔ اسی سے ہے جو جنگ کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ "لَمَنِ الْعَذْرُ"۔ کس کے لیے غلبہ ہے کہتے ہیں "هُوَ أَبُو عَذْرٍ هَذَا الْكَلَامِ"۔ وہ اس کلام کا پہلا بولنے والا ہے۔ - الْهَوَىٰ الْعَذْرَىٰ۔ پاکیزہ محبت۔ الْعَذَارُ۔ پوری۔ جَرَّ عَذْرًا۔ رُخسار

رخسار سے پرکان کے مقابل بال۔ جیا، کہتے ہیں "كَلَّمَ عَذْرَہُ هُوَ خَلِیْمٌ"۔ العَذَارُ۔ وہ پابند ہوا ہے۔ مگر ایسوں میں مبتلا ہے۔ بے پرواہ ہے۔ جیسے بلاری کا جانور آزاد ہوتا ہے۔ لَوَىٰ عَذَارًا عَنْہُ۔ نافرمانی کی۔ الْعَذَارُ مِنَ النَّصْلِ۔ تیرے چل کے دونوں طرف کی دھار۔ الْعَذَارُ۔ ختنہ یا تعمیر مکان کا کھانا۔ الْعَذْرَةُ۔ عذر۔ جَرَّ عَذْرًا۔ الْعَذْرَةُ۔ بکارت۔ تیز رفتار گھوڑے کو نظر بند سے بچانے کا نشان جو پیشانی پر لٹکایا جائے۔ بالوں کا گچھا۔ گھوڑے کی گردن کے بال۔ الْعَذْرَةُ۔ پیشانی ختنہ کی کھال۔ ایک ستارہ کا نام جس کے نکلنے سے گرمی بڑھتی ہے۔ درو حلق۔ جَرَّ عَذْرًا۔ الْعَذْرَةُ۔ پانا۔ گیہوں کا ردی حصہ۔ مکان کے سامنے کا صحن۔ جَرَّ عَذْرَاتٍ۔ الْعَاذِرُ۔ فا۔ نشان زخم۔ الْعَاذِرَةُ۔ پاخانہ۔ الْعَاذِرُ۔ رگ استیضہ۔ الْعَاذِرُ۔ عاذر۔ بدکار۔ جَرَّ عَذْرًا۔ مُؤَنِّفٌ عَذْرًا۔ الْعَذْرُ وَالْعَزِيدُ۔ نئی خوشی کا کھانا۔ الْعَذْرَةُ۔ نشان زخم۔ الْعَاذِرُ۔ درو گلو۔ علامت۔ جَرَّ عَوَاذِرًا۔ الْعَاذِرُ۔ نئی خوشی کا کھانا۔ الْعَذْرَاءُ۔ بارہ۔ دُرُ نَسْفَتَہُ۔ جَرَّ عَذَارِی وَعَذَارِی۔ عَذْرَاتُ۔ حضرت مریم کا لقب ہے۔ الْعَذْرَى وَالْمَعْدَرَةُ وَالْمَعْدَرَةُ۔ الْمَعْدَرَةُ۔ عذر، بہانہ۔ جَرَّ مَعَاذِرًا۔ الْمَعْدَرُ۔ عذر، بہانہ۔ جَرَّ مَعَاذِرًا۔ عَذْفٌ رَضٍ، عَذْفًا۔ مِنَ الطَّعَامِ۔ کھنا۔ تَعَذَّفَ۔ الطَّعَامِ۔ کھانا۔ کہتے ہیں کہ مَا ذُقْتُ عَذْفًا وَلَا عَذْفًا وَلَا عَذْفًا۔

میں نے کچھ نہیں چکھا۔
نَسَمُ عَذَاؤُ زہر قاتل۔

العَذَاؤُ شیر۔ مضبوط اونٹ۔ ج۔
عَذَاؤُ عَذَاؤُ مَضْبُوطِ اونٹ۔
عَذَقْتُ دمن، عَذَقْتُ وَعَذَقْتُ۔ اَلْمُخَلَّةُ
کھجور کے درخت کی شاخ کا ٹٹا۔
عَذَقْتُ فَلَانًا بِشَرٍّ تہمت لگانا۔
عَذَقَهُ اِلٰی كَذَا۔ منسوب کرنا۔
عَذَقْتُ وَاعَذَقْتُ الشَّاةَ۔ بکری کے
رنگ کے خلاف کسی اور رنگ کی اون
سے نشان لگانا۔

اِعْتَذَقْتُ۔ دوشمے لگانا۔ اِعْتَذَقَهُ بَلَدًا۔
کسی چیز کے ساتھ خاص کرنا۔ ا
العَاذِقُ۔ فا۔ کھجور کے درخت کی حفاظت و
خدمت کرنے والا۔ ج۔ عَاذِقُونَ و
عَذَاقُ۔

العَذَقُ۔ کھجور کا پھل وار درخت۔ ج۔
اَعَذَقْتُ وَعَذَاقُ۔
العِذْقُ۔ انکور کا گھٹا۔ مِّنَ النَّخْلِ۔ کھجور
کا خوشہ۔ ج۔ عَذْوَقٌ وَاعَذَاقُ
العِذْقُ۔ شاخوں والی ٹہنی۔ عزت۔
کہتے ہیں۔ "فِي بَنِي فُلَانٍ عِذْقٌ"
کہہ۔ بنی فلاں میں انتہائی عزت ہے۔
العِذْقُ۔ ہوشیار۔ چرب زبان۔

طِيبُ عِذْقٍ۔ تیز خوشبو۔
العَذْقَةُ وَالْعِذْقَةُ۔ بکری کے رنگ
کے خلاف اون کا نشان۔

عَذَلَهُ دمن ض، عَذَلًا وَعَذَلَهُ۔ ملامت
کرنا۔ صفت عَاذِلٌ۔ ج۔ عُدَلٌ و
عُدَالٌ، عَذَلَهُ وَعَاذِلُونَ مُؤَنَّثٌ
کَاذِلَةٌ۔ ج۔ عَوُولٌ، عَاذِلَاتٌ۔
تَعَاذِلُ۔ القوم۔ ایک دوسرے کو ملامت

کرنا۔
تَعَذَّلَ وَاعْتَذَلَ۔ اپنے آپ کو ملامت
کرنا۔ ملامت سے متاثر ہونا۔ اِعْتَذَلَنِي

النَّوْمُ۔ دن کا سخت گرم ہونا۔
اِعْتَذَلَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ۔ پختہ
ارادہ کرنا۔

العَذْلُ وَالْعَذْلُ وَالْتَعَذَالُ۔ ملامت۔
أَيَّامٌ عَذْلٌ اَوْ مُعْتَذِلَاتٌ۔ سخت
گرم دن۔

العَذَلَةُ وَالْعَذُولُ وَالْعَذَالُ و
العَذَالَةُ۔ بہت ملامت کرنے والا۔
العَذَالَةُ۔ مؤنث عَذَالٌ۔ سُرین۔
العَاذِلُ۔ فا۔ رگ استیضہ۔

المُعَذِّلُ۔ مفع۔ فیاضی کی بنا پر ملامت
کیا گیا۔

عَذَلَجَ۔ السِّقَاءُ بِشَكَاةٍ مَبْرَا۔ الْوَلَدُ
وغیرہ۔ لڑکے کو اچھی غذا دینا۔

عَبِشَ عَذْلًا ج۔ خوشگوار زندگی۔
العَذْلُ لُجْجٌ۔ اچھی غذا سے پرورش شدہ بچہ۔
المُعَذِّلُ ج۔ پر گوشت، خوبصورت جسم والا۔
مؤنث مُعَذِّلَةٌ ج۔

عَذَمَ دمن، عَذَمًا۔ الْفَرْسُ۔ گھوڑے
کا کاٹ کھانا۔ الرَّجُلُ۔ اپنے آپ سے
مافعت کرنا۔ ع۔ ملامت کرنا۔

عَذَمَ دمن، عَذَمًا۔ گالی دینا۔
أَعَذَمَنِي۔ عَنْ نَفْسِيہ۔ روک دینا۔
منع کرنا۔

العَذْوَمُ۔ بہت کاٹ کھانے والا۔ بہت
لامت کرنے والا۔ ج۔ عَذْمٌ۔
العَذَامُ۔ بہت کاٹ کھانے والا۔ بہت
لامت کرنے والا۔

العِذِيْمَةُ۔ ملامت، اس کھجور کا درخت جس
میں گھٹی نہ ہو۔ ج۔ عَذَايِمُ۔

عَذَايَعُ عَذَاوًا وَعِذْيُ يَعْذِي
عِذْيٌ وَعِذْوٌ يَعْذُو عِذَاوَةً۔

المكان۔ اچھی ہوا والا ہونا۔ پانی اور
وہابی امراض سے دور ہونا۔

اِسْتَعَذَى الْمَكَانَ۔ اچھی ہوا وان سمجھنا۔

ارَضٌ عَاذِيَةٌ، عِذِيَّةٌ، عِذِيَّةٌ، عِذَاةٌ
عمدہ آب و ہوا والی زمین۔

العِذْيُ کھیت جس کی سیرابی صرف بارش کے
پانی سے ہو۔ ج۔ اَعْدَاوُ۔
عَوْدَن من، عَوْدًا عِذَالُ الْجَبَلِ۔ خارش
زدہ ہونا۔ صفت عَوْدٌ وَاعْوَدٌ عَوْدًا
وَمَعْوَدٌ۔

عَوْدَةٌ دمن، عَوْدًا۔ نکلین کرنا۔ سائل بن کر آنا۔
عَوْدٌ بِشَرٍّ۔ برائی سے ملوث کرنا۔
(وَعَوْدٌ) الارض، زمین میں کھاد
ڈالنا۔

عَوْدٌ دمن، عَوْرًا، عَاوًا مَعَاوَةً عَوْرًا
اَلْعَلِيَّةُ بِشَرِّ مَرِغٍ کَايْنُهَا۔ اَعْوَبَتْ
الذَّارُ۔ گھڑ کا گندہ ہونا۔

تَعَاوَزَ۔ نیند میں بولتے ہوئے بیدار ہونا۔
اَعْتَوَزَ رَاغَتًا رَاغَةً رَاغَتًا رَاغَةً۔ بغیر سوال
کے بخشش کے لیے آنا۔

اِسْتَعَوَزَهُ الْجَرْبُ۔ کھجی پھیل جانا۔
العَاوُورُ وَالْعَاوُورَةُ۔ مغوس آدمی۔ قوم
پر بے حرمتی لانے والا۔ بے کوہان کا
اونٹ۔

العَوْرُ وَالْعَوْرُورُ۔ خارش۔
العَوْرُ۔ کھجی والا۔ کھجی، غیب، برائی، وہ بچہ
جس کا دو وہ جلد چھڑا دیا گیا ہو۔

العَوْرَةُ۔ اسم مرؤۃ۔ مؤنث العَدَّ۔ جنگ کی
سختی۔ بری عادت، غیب۔

العَوْرُ۔ کھجی، پرندہ کی بیٹ۔ لڑکا، بیگنی، گوبر
کوہان کی چربی۔ ناگوار بات کا پیش آنا، گناہ
جنون ہوا انسان کو لگے۔ کہتے ہیں۔ "بہ۔
عَوْرَةُ" اس کو جنون ہے۔

الْأَعْوَرُ۔ خارش زدہ مرد یا اونٹ۔ مؤنث
عَوْرَاءُ۔ ج۔ عَوْرُ۔ العَوْرَاءُ۔ لڑکی۔

العَوْرَانُ۔ ایک پھول کا نام جس کو گاؤ چشم
کہتے ہیں۔ جنگلی نرگس۔ واحد عَوْرَانَةٌ۔

العَوْرَانُ۔ قصاص، خون کا بدلہ۔





الْعَرَابُ - گناہ - قصور
 الْعَرَاكَةُ - طڑی، سختی، بلندی، بدخلقی
 الْعَرِيْزُ - اجنبی
 الْمَعْوَةُ - گناہ، تکلیف، بدی، ڈانڈ، قصور
 عیب، بری بات، سختی - گالی غصہ سے
 چہرے کا رنگ بدل جانا - ستارہ
 کہکشاں کے علاوہ - ایک شہر کا نام
 مَعَوَّةُ الْجَبِيْشِ - وہ لشکر جو نادانی
 سے قوم کی کھیتی کھائے۔
 الْمُعْتَرُ - فقیر، بغیر سوال کیے بخشش کے
 درپے ہونے والا۔
 عَرَبٌ رَاكٌ، عَرُوبَةٌ وَعُرُوبِيَّةٌ وَعَرَابَةٌ
 وَعُوبًا وَعُرُوبًا - فصیح عربی بولنا۔
 فصیح عربی زبان بولنا۔
 عَرَبٌ رَسٌ، عَرَبِيٌّ - بگڑے ہوئے عمدہ
 والا بولنا - المَعْدَةُ - فاسد بولنا۔
 الجَرَحُ - ورم بولنا اور پیپ پڑ جانا۔
 البَاؤُ كُنُوسٍ میں بہت پانی بولنا - الدُّجْلُ
 کلفت کے بعد فصیح بولنا۔
 عَرَبٌ دَمٌ، عَرَبِيٌّ - الطعام - کھانا۔
 عَرَبٌ الْمُنْطِقُ - اعرابی غلطی سے پاک کرنا۔
 الکِتَابُ وَفُحُوهُ - عربی میں ترجمہ کرنا۔
 عَلَيْهِ فَعْلُهُ قِيْعٌ تَنَانٌ - قولہ، ادا کر
 دینا - عَنْهُ لِسَانُهُ - فصیح بولنا مراد کو
 ظاہر کرنا - عَنْ صَاحِبِهِ - اپنے ساتھی کی
 طرف سے بولنا اور دلیل بیان کرنا۔
 الرَّجُلُ - عربی گھوڑا لینا - الْمُشْتَرِي -
 بیچانہ دینا - الدُّجْلُ - قبیح بات کہنا۔
 بِحُجَّتِهِ - دلیل کو اچھی طرح بیان کرنا۔
 الْأِسْمُ الْأَعْجَبِي - عربی بنا دینا۔
 أَعْرَبَ - الشَّيْءُ ظَاهِرٌ كَرَنًا عَنْ حَاجَتِهِ -
 صاف بیان کرنا - کلامہ - فصاحت
 سے بولنا اور غلطی نہ کرنا۔ بالکلام بیان
 کرنا - بِحُجَّتِهِ - عمدہ دلیل بیان کرنا۔
 الْأِسْمُ الْأَعْجَبِي - عربی بنا دینا۔

الْكَلِمَةُ - اعراب لگانا - الفَرَسُ -
 دوڑانا - الفَرَسُ الْعَرَبِيُّ - بنہانے
 سے عربی گھوڑے کو غیر عربی گھوڑے سے
 ممتاز کیا - أَعْرَبَ الرَّجُلُ - اونٹ اور
 عربی گھوڑوں کا مالک ہونا - الْمُشْتَرِي -
 بیچانہ دینا - الرَّجُلُ - کلام میں غلطی نہ
 کرنا - فحش بات کہنا۔
 تَعَرَّبَ - عربی اخلاق اختیار کرنا - اہل عرب
 کی مشابہت کرنا - دیہات میں قیام
 کرنا - اعرابی بننا۔
 اِسْتَعَرَّبَ - عربوں میں داخل ہونا - قبیح بات
 کہنا۔
 الْعَرَبُ وَالْعَرَبُ - عرب کے باشندے۔
 ج - أَعْرَبٌ وَعُرُوبٌ -
 الْعَرَبُ وَالْعَرَبَاءُ وَالْعَارِبَةُ وَالْعَرَبَةُ
 الْعَرَبِيَّةُ - خالص عربی لوگ - لفظ
 عرب اس مقام پر بتاویل طائفہ مؤنث ہے
 الْعَرَبُ وَالْمُسْتَعَرِبَةُ وَالْمُسْتَعَرِبَةُ
 وہ غیر ملکی جو عرب میں آباد ہو گئے۔
 الْعَرَابَةُ وَالْعَرَابَةُ - فحش، بدگوئی۔
 الْعَرَبُ وَالْعَرَبُ - مِنَ الْمَاءِ كَثِيرٌ صَافٍ
 پانی - رَجُلٌ عَرَبٌ - تیز زبان مرد - بَلَرٌ
 عَرَبِيَّةٌ - بہت پانی والا کنواں - مُعَدَّةٌ
 عَرَبِيَّةٌ - فاسد عمدہ - رَجُلٌ عَرَبَانٌ -
 فصیح مرد - رَجُلٌ عَرَبَانِيٌّ الْبَلْسَانُ -
 فصیح مرد۔
 الْعَرَبِيُّ - خالص عرب کا باشندہ اگرچہ کسی
 دور سے ملک میں رہتا ہو۔
 الْعَرَبِيَّةُ مُؤَنَّثٌ - الْعَرَبِيُّ الْكَلِمَةُ
 الْعَرَبِيَّةُ - عربی زبان۔
 الْأَعْرَابِيُّ - عرب کا دیہاتی۔
 الْأَعْرَابُ - عرب دیہات کے رہنے والے۔
 وَاحِدٌ أَعْرَابِيٌّ -
 الْعَرَبِيَّةُ - نہر جو تیز بہتی ہو - نفس - ج
 عَرَبٌ وَعَرَبَاتٌ -

الْعَرَبَاتُ - وہ کشتیاں جو دور عباسیہ میں
 دجلہ میں بندھی رہتی تھیں جن سے پل کا
 کام لیا جاتا ہے آج کل کبھی پر اس کا
 اطلاق ہوتا ہے۔
 الْعَرَابُ - عندا النصاری - وہ مقدس مرد
 جو ہتسمہ دیے ہوئے شخص کا باپ بنایا
 جاتا ہے - عَرَابَةٌ - وہ عورت جو اہل
 بنتی ہے۔
 الْأَعْرَابِيَّةُ - عربی دیہاتیت - کہتے ہیں
 "هُوَ أَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا" - وہ حسب
 کے اعتبار سے خالص ہے - وَأَعْرَبُهُمْ
 أَلْسِنَةً - اور زبان کے لحاظ سے قبیح ہے
 - تَجِلُّ أَوَائِلُ عَرَابٍ وَأَعْرَبٍ -
 خالص عربی گھوڑے یا اونٹ۔
 الْعُرْبَانُ - عرب۔
 الْعُرُوبُ وَالْعُرُوبَةُ - مِنَ الْبَسَاءِ -
 بہت سینے والی عورت - شوہر کی نافرمان
 عَرُوبَةٌ أَوْ يَوْمَ الْعُرُوبَةِ - روز جمعہ
 کہتے ہیں "مَا بِالْأَرْمَعْرِبِ أَوْ
 عَرِيْبٍ" گھر میں کوئی نہیں۔
 الْأِسْمُ الْمُعَرَّبُ - عربی بنایا ہوا اسم جیسے
 رَشِمٌ سے آبرِ شِم -
 عَرَبِدٌ عَرَبِيَّةٌ - بدخلق بولنا - صفت -
 عَرَبِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ -
 الْعَرَبِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ - سخت چیز کہتے ہیں
 "عَضْبٌ عَضْبًا عَرَبِيًّا" - سخت
 غضب ناک ہوا - نذر سانپ۔
 عَرَبِيَّةٌ - بیچانہ دینا۔
 الْعُرُونُ وَالْعَرِيُونُ وَالْعَرِيَانُ - بیچانہ
 ج - عَرَابِيْنٌ - عام لوگ رُعْبُونٌ
 کہتے ہیں۔
 عَرَتٌ رَضَنٌ، الْوُمُحُ - نیزہ سخت بولنا
 - الدِّهْنُ وَفُحُوهُ - بکلی وغیرہ چکنا۔
 بَرَقَ أَوْ رَمَعَتْ عَرَاتٌ - بہت حرکت
 کرنے والا نیزہ یا بکلی۔

لغز جاء و موت اسد بهر - سرس
بجو

العندس - پراسیداب - بربا

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ع



شب میں آرام کے لیے اترنا۔
تَعَرَّسَ - لاصراً تبه - قریفہ ہونا۔
اِعْتَرَسَ - القوم عنه - متفرق ہونا۔ جدا ہونا۔

العُرْسُ - مص - رسی، خیمے کے بیچ کا کھمبا۔
(- والعُرْسُ) اونٹ کا چھوٹا بچہ۔
جہ - اَعْرَاسٌ -

العُرْسُ - ولین - عُرْسُ المَرْأَةِ - دولہا۔
جہ - اَعْرَاسٌ - اِبْنُ عُرْسٍ - نیولا۔
جہ بنات عُرْسٍ - (مذکر و مؤنث)

العُرْسُ والعُرُوسُ - زفاف - طہام ولیمہ۔
جہ - اَعْرَاسٌ وَعُرُوسَاتٌ -
العِرَاسُ - وہ رسی جس سے اونٹ کو باندھا جائے۔

العُرُوسُ - دولہا ولین - بیچ کے لیے کہتے ہیں۔
”هَمْ عُرْسٌ وَهِيَ عَرَّاسٌ“ اور
دفع التباس کے لیے عورت پر عُرُوسَةٌ
کا اطلاق کرتے ہیں۔ جہ - عَرَّاسٌ -

العُرَّاسُ - عند المَوْلَدِین - ولین۔
العُرَّاسُ والعُرَّاسَةُ - بیٹہ شیر۔
العَرَّاسُ والمُعْرَسُ والمُعْرَسُ - اونٹ
کے چھوٹے بچوں کو بیچنے والا۔
المُعْرَسُ والمُعْرَسُ - آخرات میں
اترنے کی جگہ۔

عَرَّشَ رن من عَرَّشاً - کڑی کا مکان بنانا۔
- البیت - گھر بنانا۔ العَرَّشُ - چھت
بنانا۔ تخت بنانا۔ البستر کنویں کے
نچے حصہ کو قد آدم پتھر سے بنا کر کڑی
سے ہنانا عَرَّشاً وَعُرُوشاً - الکُومُ -
انگور کی بیل کو ٹی پر چڑھانا۔

عَرَّشَ رن عَرُوشاً وعَرُوشاً - متحیر ہونا۔
بَعْدَ جَمْعٍ سَخْتٍ پکڑنا - عَدْلٌ بھرجانا
چھوڑ دینا۔

عَوَّشَ الکُومُ - انگور کی بیل ٹی پر چڑھنا۔
الکُومُ - انگور کی بیل کو ٹی پر چڑھانا۔
البیت - چھت بلند کرنا۔ الطَّائِرُ -
بلند ہو کر بازوؤں سے سایہ کرنا۔ د - و
أَعْدَشَ، ٹی بنانا۔ سایہ کے لیے چھولاری
بنانا۔

تَعَرَّشَ وَتَعَرَّشَ - بالامر - چٹا رہنا۔
بالمكان ثابته رہنا۔ تَعَرَّشَ الدَّابَّةُ
سوار ہونا۔

اِعْتَرَّشَ، ٹی بنانا سایہ کے لیے چھولاری
بنانا۔ اِعْتَرَّشْتَ الدَّابَّةُ اِلَى عَلَی
الخشب - انگور کی بیل چڑھانا، اور
لشکارتار - وَاَعْرَوشَ الدَّابَّةُ -
سوار ہونا۔

العَرَّشُ - تخت شاہی - کسی چیز کا ستون کسی
چیز کا قوام - کہتے ہیں ”ثَلَّ عَرَّشُهُ“
اس کی عزت جاتی رہی اور معاملہ کمزور
پڑ گیا۔ العَرَّشُ مِنَ الْبیت - چھت
- مِنَ الْقَوْمِ - رئیس، سرور۔ وہ کڑی
جس سے کنویں کے اوپر کا حصہ بنایا جائے۔
شامیانہ خیمہ مکان جس میں سایہ لیا
جائے۔ محل۔ قدم کی پشت کا بلند حصہ۔
کنویں کی من - عَوَّشَ الطَّائِرُ گھونسلہ۔
عَوَّشَ الکُومُ - انگور کی ٹی - جہ - عَوَّشَ
وَالْعَرَّشَةُ - پالکی۔

عَرَّصَ رن عَرَّصاً وَعَرَّصَ رن عَرَّصاً
- الدَّابَّةُ - بجلی کا پر اگندہ ہو کر چلنا۔
صفت عَرَّصَ وَعَرَّصَ - الرجلُ
خوش ہونا۔

عَرَّصَ - البعیرُ - اونٹ کو سدھانا۔
اللَّحْمَ - گوشت کو خشک کرنے کے
واسطے میدان میں ڈالنا۔

أَعْرَصَ - الشَّيْءُ - مضطرب ہونا۔
تَعَرَّصَ - بالمكان - اقامت کرنا۔
اِعْتَرَّصَ - الغلام - کھیل کود کرنا۔ خوش

ہونا۔ - الجلد - کھال پھڑکنا۔ البهري
بجلی کا پر اگندہ چلنا۔ الرجلُ - اچھلنا
کودنا۔
العَرَّصَةُ - گھڑ کا صحن۔ وہ جگہ جس میں کوئی
عمارت نہ ہو۔ جہ - عَرَّاصٌ أَعْرَاصٌ -
عَرَّاصَاتٌ -

العَرَّاصُ - بہت پر اگندہ چلنے والی بجلی، گرج اور
بجلی والا بادل۔ نرم نیزہ۔

المِعْرَاصُ - نیا چاند۔
عَرَّصَهُ عَرَّصَةً - کھینچ کر لمبائی میں
بھاڑ دیا۔

العُرُوصُ والعُرُوصَاتُ - پالان کی میخ۔
جہ - عَرَّاصِيْفٌ - العُرُوصَاتُ - پیٹھے
کا کورٹا۔ سونڈ کی نرم بڑی۔

العُرُوصَةُ - بہت کھانے والا۔ خوش
العُرُوصَةُ - دبلا۔ مضبوط۔ قوی بشیر۔
العُرَّاصُ والعُرَّاصَةُ - شیر۔
العُرُوصُومُ - بخیل۔

عَرَّضَ رن عَرَّضاً - الشَّيْءَ بِفُلَانٍ پیش
کرنا۔ الشَّيْءَ عَلَیْهِ - دکھانا۔ المتاعُ
الرَّبِیْعُ - سامان کو فروخت کے لیے
خریداروں کے سامنے پیش کرنا۔ الْجُنْدُ
فوج کا جائزہ لینا۔ لَهُ مِنْ حَقِّهِ
ثَوْباً - حق کے بدلہ میں دینا۔ عَرَّضَ لَهُ
عَارِضٌ مِنَ الْحُلِيِّ - بخار آنا۔

الْقَوْمَ عَلَی السَّيْفِ - قوم کو تلوار سے
مارنا۔ الْحَصِيْرُ - چٹائی بچھانا۔ کہتے
ہیں ”عَرَّضَ عَرَّضٌ او عَرَّضَ فُلَانٌ“
فلاں شخص کی سی چال چلا۔ لَا تَعْرِضْ
عَرَّضَ فُلَانٌ - برائی سے یاد نہ کرو۔

عَرَّضَ الرجلُ - بغیر کسی بیماری یا
سبب کے مر جانا۔ الْفَرَسُ - گھوڑا دوڑنے
لگا۔ عَرَّضَ لِي عَارِضٌ - کسی مانع کا
پیش آنا۔

عَرَّضَ رن عَرَّضَ رن عَرَّضاً - ظاہر ہونا۔

اور ہمیشہ نہ رہنا۔
عَرَضَ (مَنْ) عَرَضًا - الْعُودَ عَلَى الْإِنْعَاءِ -
برتن پر لکڑی کو چوڑائی میں رکھنا۔
عَرَضٌ - مجنون ہونا۔

عَرَضَ (دَنْ) عَرَضًا - مکہ و مدینہ یا ان کے اطراف
میں جانا۔ اَلْکِتَابُ - زبانی پڑھنا۔
عَرَضَ رُكْ، عَرَضًا وَعَرَضَةً - چوڑا ہونا۔
صفت عَرِضٌ وَعَرِضٌ -
عَرَضَ لَهٗ، بَهٗ - تعریف کرنا۔ کسی پر ڈھال
کرات کہنا۔ الشَّيْءُ - چوڑا کرنا۔
الْمَتَاعُ - سامان کو سامان کے بدلے
فروخت کرنا۔ الْکَاتِبُ - مبہم کرنا۔
الشَّيْءُ لِلشَّيْءِ - مقابل کرنا۔ کہتے ہیں۔
"عَرَضْتُ مَالَكَ لِلْمُهْلَاكِ" تو نے
اپنے مال کو برادری کے لیے پیش کر دیا۔
هُنَّ مَالِهِ بَكَدًا - بدلہ دینا۔ فُلَانٌ
عمرہ لئے والا ہونا۔

أَعْرَضَ - عَنْهُ - مِنْهُ مَوْرًا - الشَّيْءُ - چوڑا کرنا۔
- الْمَسْأَلَةُ - طویل سوال کرنا۔ فِي
الْمَكَارِمِ - بہت فیاض ہونا۔ الْأَمْرُ
ظاہر ہونا۔ کہتے ہیں "عَرَضْتُه"
فَاعْرَضَ - میں نے اسے ظاہر کیا تو وہ
ظاہر ہو گیا۔ الثَّوْبُ - چوڑا ہونا۔ کہتے
ہیں "أَعْرَضَ لَكَ الْحَبِيبُ" تمہیں بھلائی
کی قدرت ہے۔ أَعْرَضَ لَكَ الطَّيْفُ
فَانْهَبَ - ہرن سامنے ہے، تیر مارو۔
عَارِضُهُ مُعَارِضَةٌ وَعَرِضًا - بھر جانا۔
یکسو ہونا۔ عَارِضُ الْکِتَابِ بِالْکِتَابِ
کتاب کا کتاب سے مقابلہ کرنا۔ الرَّجُلُ
کلام پر نقص وارد کرنا۔ مَقَادِمَتُ کرنا۔
دوسرے کی طرح کام کرنا۔ هُوَ فِي
الْمَسِيرِ - چلتے میں برابری کرنا۔ عَارِضُ
الرَّجُلِ - راہ میں ایک جانب ہوا۔ کہتے
ہیں "عَارِضُهُ قَعْرَضُهُ" اس نے
معارضہ میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔

تَعَرَّضَ - الْأَمْرُ، لِلْأَمْرِ، إِلَى الْأَمْرِ -
درپے ہونا۔ طَلَبَ کرنا۔ الشَّيْءُ - ٹیڑھی
ہونا۔ ایک جانب کو ظاہر کرنا۔ فاسد
ہونا۔

تَعَارَضَ - الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے سے
مقابلہ کرنا۔
رَاعِزَمَنْ - چوڑائی میں ہونا۔ لَهٗ - منع کرنا۔
الْبُعُودُ - مرکب اونٹ پر سوار ہونا۔
لَهٗ لِسَهْمٍ - سامنے آکر تیر مارنا۔
عَرِضَةٌ - عیب نکالنا۔ آبرو گھٹانا۔
دَوْنُ الشَّيْءِ - حائل ہونا۔ روک لینا۔
الْقَائِدُ الْجُنْدِ - ایک ایک کر کے پیش
کرنا۔ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ -
اعتراض کرنا۔ خطا کی طرف منسوب کرنا۔
الشَّيْءُ - تکلیف کرنا۔ کہتے ہیں "عَرِضَتْ
فَاعْتَرَضَ" اس نے پیش کیا، تو وہ
پیش ہوا۔

اسْتَعْرَضَ - چوڑی چیز طلب کرنا۔ الشَّيْءُ -
پیش کرنے کو کہنا۔ هُوَ - کسی سے کہا کہ
جو کچھ ہے دکھاؤ۔ الْقَوْمُ - بغیر دریافت
حال قتل کرنا۔ کہتے ہیں "اسْتَعْرَضَ
يُعْطِي مَنْ أَقْبَلَ أَوْ أَدْبَرَ" بغیر
سوال کے ہر آنے جانے والے کو دیتا
ہے۔
اسْتَعْرِضَ الْعَرَبَ - جس عرب سے چاہو،
دریافت کرو۔

الْعَرَضُ - اسباب، سامان۔ ج. عَرُوضٌ
پھاڑ یا پھاڑ کا پہلو۔ بڑا لشکر، چوڑائی،
وسعت، جنوں، وادی، بہت ٹڈیاں۔
بادل - مِنَ اللَّيْلِ - رات کا ایک
حصہ۔ ج. عَرُوضٌ - عَرِضٌ، عَرِضٌ
جُزْأَنُهَا دُونَ -

الْعَرِضُ - التَّجَا - گذارش۔ کہتے ہیں "الشَّيْءُ
عَرِضٌ عَنِّي" چیز میری نگاہ کے
سامنے ہے۔ اسْتَوَيْتُ الْمَتَاعَ

بَعَرَمِنْ - سامان کو سامان کے بدلے
خریدا۔ وَعَرِضُ الْحَالِ عِنْدَ الْکِتَابِ
حاکم کو درخواست دینا۔ جمع کے لیے
عَرُوضُ الْأَحْوَالِ بولتے ہیں۔ أَعْرَاضُ
الشَّجَرِ - درخت کی پھنگلیاں۔

الْعَرِضُ - اچھی خصلت۔ عزت، باعث عزت
فخر۔ ج. أَعْرَاضٌ - کہتے ہیں "هُوَ
لَيْقَى الْعَرِضُ" وہ عیب اور گالی گلوچ
سے پاک ہے وَذُو الْعَرِضِ مِنَ الْقَوْمِ
اشراف قوم سے ہے۔ "هُوَ عَرِيبٌ
الْعَرِضُ" وہ خاندان کا کینہ ہے۔
الْعَرِضُ - نَفْسٌ - کہتے ہیں "أَكُوْمْتُ
عَنْهُ عَرِضِي" میں نے اس سے اپنے
نفس کو بچایا۔ جِسم، جِسم کی بُو، مسامات،
وادی، شہر کا کنارہ، وہ وادی جس میں
درخت پانی اور آبادی ہو۔ ج. عَرِضَاتُ -
بہت ٹڈیاں، بڑا لشکر۔ بڑا بادل۔
الْعَرِضُ مِنَ النَّاسِ - یہود کی سے
پیش آنے والا۔

الْعَرِضُ - جانب، کنارہ، دامن کوہ۔ مِنَ
الْبَحْرِ أَوِ الشَّهْرِ - سمندر یا دریا کا بیچ۔
- مِنَ الْحَدِيثِ - بہتر اور بڑی بات
- مِنَ السَّيْفِ أَوِ الْعُنُقِ - تلوار یا گلے
کی ایک جانب۔ کہتے ہیں "نَظَرْتُ إِلَيْهِ
عَنْ عَرِضٍ وَكَلَّمْتُهُ عَنْ عَرِضٍ" گوشہ
چشم سے دیکھا اور ایک جانب ہو کر
بات کی۔ تَخَوَّأُ يَعْرِضُونَ النَّاسَ
عَنْ عَرِضٍ - نکل کر مارنا شروع کر دیا اور
پرواہ نہ کی کہ کس کو مار رہے ہیں، اور
کیوں مار رہے ہیں۔ لَا ضَرْبَ بِهِ عَرِضٌ
الْحَارِيطُ - دیوار کے ایک گوشہ میں
پھینک دو اور اعراض کرو۔ هُوَ مِنْ
عَرِضِ النَّاسِ - وہ معمولی لوگوں میں
سے ہے۔

الْعَرِضُ - مَتَاعٌ، سامان، عارضہ، غیر دائمی،





کہتے ہیں۔ "هَذَا الْعَرُوضُ عَرُوضٌ" یہ امر زائل ہونے والا ہے۔ تجشش۔ غیبت۔ "مِنْ كُلِّ شَيْءٍ" جو قائم بالذات نہ ہو کسی جوہر کے ساتھ قائم ہو۔ ج۔ "أَعْرَاضٌ" کہتے ہیں۔ "فَعَلَهُ" عَرَضًا بغير سوچے سمجھے کیا۔

الْعَرُوضَةُ: پیش کرنے کی نوعیت۔ العَرُوضُ کا مؤنث ہے۔ یہود کی سے پیش آنے والی عورت۔

الْعَرُوضَةُ: بہت، کشتی لڑنے کا داؤ پیچ۔ ارادہ، نشانہ، قوت، کہتے ہیں۔ "هُوَ عَرُوضَةٌ يَكْذِبُ" وہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ "هُوَ عَرُوضَةٌ لِلنَّاسِ" وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کا نشانہ ہے۔ "هُوَ عَرُوضَةٌ لِلْكَلَامِ" وہ اعتراضات کا نشانہ ہے۔ "جَعَلْنَاهُ عَرُوضَةً" ہم نے اسے نشانہ بنایا۔

الْعَرُوضِيُّ: جو زمین پر قائم نہ رہ سکے۔ "مِنْ الْإِبِلِ" سرکش اونٹ جو ابھی اچھی طرح نہ سدھایا گیا ہو۔

الْعَرَاضُ: جانب، گوشہ، کنارہ۔ حصہ۔ اونٹ کے ران کی چوڑائی میں علامت کے لیے نشان۔ "عَرَاضُ الْكَلْبِ" بڑی اور بہتر بات۔ ج۔ "عَرُوضٌ" العَرَاضُ وَالْعَرُوضُ: چوڑا۔

الْعَرَاضَةُ: عَرَاضُ کا مؤنث، وہ بدیہ جو مسافر پیش کرے۔

الْعَرُوضِيُّ: جو شر کے ساتھ پیش آئے۔

الْعَرُوضُ: اشعار کا وزن۔ مصرعہ اولیٰ کا جزو اخیر۔ سرکش اونٹنی جو ابھی سدھائی نہ گئی ہو۔ ج۔ "أَعَارِضُ" مکہ و مدینہ و مضاف کے گوشہ۔ دامن کوہ کا راستہ بادل بہت چیز چلنے میں سامنے کی جگہ۔ "مِنْ الْكَلَامِ" مضمون، کہتے ہیں۔

"هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَرُوضٌ هَذِهِ"

یہ مسئلہ اس کی نظیر ہے۔

الْعَرُوضِيُّ: علم عروض کا عالم۔

الْعَارِضُ: خا۔ رخسارہ، بادل، پہاڑ، عارضی چیز۔ کہتے ہیں۔ "عَرُوضٌ عَارِضٌ" مانع نے روک دیا۔

الْعَارِضَةُ: مؤنث العَارِضُ۔ وہ دانست جو منہ کے عرض میں ہیں۔ وہ دانست جو ہنستے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ پیش آنے والی بات۔ دھواڑے کے اوپر کی لکڑی۔ جس میں دروازہ گھومتا ہے۔ رخسارہ، گوشہ۔ حاجت۔ ج۔ "عَوَارِضُ" العَوَارِضُ: مکان کی چھت کی لکڑیاں جو عرض میں رکھی ہوتی ہوں۔

الْعَارِضَةُ: عمدہ رائے، کلام کی تنقید۔ کہتے ہیں۔ "فَلَانٌ ذُو عَارِضَةٍ" فلاں شخص صاحب بیان، فی البدیہہ کہنے والا اور فصیح ہے۔

الْعَرِيفُ: چوڑا۔ ج۔ "عَرَاضُ" دُعَاءُ عَرِيفُ: لمبی چوڑی دعا۔ "هُوَ عَرِيفُ الْبَطَانِ" وہ مالدار ہے۔

الْعَرِيفُ: خضعتی بکرا۔

الْعَرِيفَةُ: مؤنث العَرِيفُ۔ کیفیت کا پیش کرنا۔

التَّعْرِيفُ: فی الکلام۔ دوسرے پر ڈھال کر بات کرنا۔

المَعْرَاضُ: توریہ کرنا۔ "مِنْ الْكَلَامِ" مضمون بغیر یہ کہ تیر جس کا درمیانی حصہ موٹا ہو۔ ج۔ "مَعَارِيفُ" المَعْرُوضُ: پیش کرنے کی جگہ۔ مصنوعات کے پیش کرنے کی جگہ۔ کہتے ہیں۔ "ذَكَرْتُهُ فِي مَعْرُوضٍ كَذَا"۔

المَعْرُوضُ: دلسن کی شب عروسی کے کپڑے۔

الْكَلَامُ الْمُعْرَضُ: مبہم کلام۔ ج۔ "مَعَارِيفُ" و "مَعَارِضُ" کہتے ہیں۔ "إِنَّ رَفِي الْمَعَارِيفُ لَمَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَلْبِ"

تعریف میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔

المَعْرُوضُ: عرضی جو حکام کے سامنے پیش کی جائے۔

عَرَطَانِ، عَرَطَا، اِعْتَرَطَ عَرَضَ فَلَانٍ۔ غیبت کرنا۔ اِعْتَرَطَ الرَّجُلُ۔ دور چلا جانا۔

عَرِيطٌ وَأُمُّ عَرِيطٍ وَأُمُّ الْعَرِيطِ: بچھو۔ العَرِيطُ: بخور مریم کی جڑ۔

عَرَوْرَ: اِقَارُورَ: شیشی بند کرنا۔ کارک لگانا۔ کارک علیحدہ کرنا۔ العَيْنُ ۲ نیکھ پھوڑ دینا۔

العَرُورُ: ایک درخت سرو کی مانند۔ واحد عَرُورٌ۔

العَرُورُ: بدخلق، کہتے ہیں۔ "رَكِبَ عَرُورًا" بدخلق ہوا۔ ننھوں کے پیچ کا حصہ۔ پیر۔ العَرُورَةُ وَالْعَرُورَةُ: بوتل کا کارک۔

عَرُورَةُ الْجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی۔ ج۔ عَرَاوِرُ۔

العَرَاوِرُ: شریف سروار۔ "مِنْ الْإِبِلِ" موٹا اونٹ۔ ج۔ "عَرَاوِرُ" العَرَاوِرُ: کوہان کے کنارے۔

العَرَاوِرَةُ: منخوس مرد۔ گندامرد۔ بے کوہان والا اونٹ۔

عَرَفَ رَضٍ، عَرَفَهُ، عَرَفَانًا، عَرِفَانًا، مَعْرِفَةً، الشَّيْءَ، پچانا، جاننا۔

يَكْفِيهِ، اِقْرَارُ كَرْنَا، كَفِيلُ دِينَا، يَلَاؤُهُ، صبر کرنا۔

عَرَفَ رَدَّ، عَرَاةً، عَلَى الْقَوْمِ۔ جودھری ہونا۔ قوم کا انتظام کرنا۔ قوم کی سیاست کرنا۔ عَرَفَا الْفَرَسَ۔ گھوڑے کے ایال کاٹنا۔

عَرَفَ رَدَّ، عَرَاةً، جودھری ہونا۔ عَرَفَا وَعَرَاةً، بہت خوشبو لگانا۔ خوشبو عمدہ ہونا۔

عَرَفَ رَسَّ، عَرَفَا، خوشبو چھوڑ دینا۔

عُرُوفٌ - الرجلُ يتخيلُ في بيوتِ ابنته - مَفْتُوفٌ مَعْرُوفٌ.

عُرُوفٌ الشَّيْءُ نَوَاشِطٌ وَارَكْنَا -

عُرُوفُهُ الرَّمْلُ - واقف کرانا -

عُرُوفُهُ - يَفْلَانُ - تعارف کرانا - عُرُوفٌ لِلطَّالِمَةِ - گمشدہ چیز کو ڈھونڈنا -

الطَّعَامُ - سالن زیادہ کرنا - الإِسْمُ

نکرہ کو معرف بنانا - الحُجَّاجُ - حاجوں

کا عرف میں ٹھہرنا - وَأَعْرِفُ -

فلاناً - خطا پر مطلع کرنا اور معاف کرنا -

أَعْرِفُ الْفَرَسَ - گھوڑے کا لے

ایال والا ہونا -

تَعْرِفُ - الاسْمُ - نکرہ کا معرف بننا -

الشَّيْءُ - طلب کرنے کے بعد پہچان لینا -

الضَّالَّةُ - گمشدہ کو تلاش کرنا - يَفْلَانُ

آشنا ہونا - ایلیہ - واقف کرنا -

تَعَارَفَ الْقَوْمُ - ایک دوسرے کو پہچاننا -

أَعْرِفُ بِالْشَّيْءِ - اقرار کرنا - ذیل ہونا -

تابع ہونا - الشَّيْءُ - پہچاننا - بہ -

رہنما کرنا - الرجلُ - دریافت کرنا -

ایلیہ نام اور حال کی اطلاع کرنا -

لِلْأَمْرِ - مبر کرنا - الضَّالَّةُ - ملکیت

ظاہر کرنے کے لیے اس کے اوصاف بتانا -

أَسْتَعْرِفُ - الشَّيْءُ - پہچاننا - اِلَى فُلَانٍ

واقفیت کے لیے نسبت بیان کرنا -

أَعْدَدْتُ - لِلشَّيْءِ - برائی کے لیے آمادہ

ہونا - الفرسُ - گھوڑے کا ایال والا ہونا

- البَجْرُ - سمندر کی موجیں بلند ہونا -

الْمَخْلُ - درخت خرما کا گنجان ہونا -

الدَّمُ - خون جھاگ والا ہونا - التَّوَكُّبُ

الفرسُ - گھوڑے کی ایال پر سوار ہونا -

الرجُلُ - درخت خرما پر چڑھنا -

العُوفُ - بُو - اکثر اس کا استعمال خوشبو کے

لیے ہوتا ہے کہتے ہیں "مَا أَطْيَبَ عُرُوفُهُ"

اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے -

العُوفُ - بخشنش - بھلائی - عطیہ - اقرار - کہتے

ہیں "لَهُ عَلَى آلَتِ عُرُوفًا" میرے

اوپر اس کے ہزار احسان ہیں - مجھے اس کا

اقرار ہے - ایال - مرغ کی کھنی - نیکی -

العُوفُ - موج - اوپنی جگہ - آگے پیچھے - کہتے

ہیں "جَاءَ الْقَوْمُ عُرُوفًا" قوم آگے

پیچھے آئی - جہ - عُرُوفٌ وَأَعْرَافٌ -

العُوفُ - اصطلاح تسلیم شدہ باتیں -

عُرُوفُ اللَّسَانِ - اصطلاح لغوی -

عُرُوفُ الشَّرْعِ - اصطلاح شرعی -

العُوفُ والعُرُوفُ - صبر -

العُوفُ - ایال - ریت کی اوپنی جگہ -

العُرُوفَةُ - ہما - پھیلی کار خرم در - والعُرُوفَةُ

دریافت سوال -

العُرُوفَةُ - دو چیزوں کی درمیانی حد - ریت

کی اوپنی جگہ - جہ - عُرُوفٌ -

عُرُوفَةُ - مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام -

نویں ذی الحجہ -

عُرُوفَاتُ - مکہ سے بارہ میل کے فاصلہ پر ایک

پہاڑی جو حاجیوں کے لیے نویں تا برہ ذی

الحجہ میں وقوف کرنے کی جگہ ہے نسبت

کے لیے عُرُوفُ آتا ہے -

العرفاء - پیشہ نجوم -

العُرَافُ - نجومی - طبیب -

العُرَفَانُ - مصر - معروف -

العُرَقَانُ والعُرَقَانُ - اقرار کرنے والا -

بتلنے والا -

الْإِعْتِرَافُ - مصر - پادری کے سامنے اقرار

گناہ کرنا -

العَارِفُ - فاء - صبر کرنے والا - کہتے ہیں -

"هَذَا أَمْرٌ عَارِفٌ" یعنی معروف ہے

العَارِفَةُ - مؤنث عارف - معروف -

عطیہ - جہ - عُرَافٌ -

العُرُوفُ - عارف - صبر کرنے والا - جہ -

عُرُوفٌ -

العُرُوفَةُ - جاننے والا - عالم -

العُرُوفُ - جاننے والا - عالم - اپنے ساتھیوں

کا تعارف کرانے والا - قوم کے معاملات

کی دیکھ بھال کرنے والا - نقیب - اور یہ

رئیس سے چھوٹا ہوتا ہے - اسی سے ہے -

عُرُوفُ الْمَكَاتِبِ - مانیٹر - جہ - عُرُوفُ

أَمْرٌ عُرُوفٌ - امر معروف -

الْأَعْرُوفُ - اسم تفضیل کھنی والا - ایال والا -

حَزْنٌ أَعْرُوفٌ - بلند جگہ -

العُرُوفَةُ - مؤنث أَعْرُوفٌ - بجو - قُلَّةٌ

عُرُوفُ - بلند چوٹی - جہ - عُرُوفٌ -

الْأَعْرَافُ - بہشت و جہنم کے درمیان ایک

مقام ہے - ایک قسم کی کھجور کا پیڑ -

أَعْرَافُ الْوِيَاہِرِ وَالسَّحَابِ - ابتدائی

ہوائیں - بلند بادل - أَعْرَافُ الْحِجَابِ

اول التَّوْقِيلِ - حجاب اور ریت کی بندیاں

- الْأَعْرَافُ - کلام پاک کی ایک سورۃ

کا نام ہے -

المَعْرِفَةُ - حقیقت کو پالینا -

المَعْرُوفُ والمَعْرِفُ - چہرہ - چہرے کے

محاسن - جہ معارف - کہتے ہیں "يَهُمُّ

عُرُ الْمَعَارِفِ شَمُّ الْمَدَاعِفِ" وہ

روشن چہرے اور اوپنی ناک والے ہیں

- الْمَعَارِفُ - علوم -

مَعَارِفُ الرَّجُلِ - شناسا لوگ - کہتے ہیں

"هُوَ مِنَ الْمَعَارِفِ" وہ مشہور

لوگوں سے ہے -

المَعْرِفَةُ - ایال کے اگنے کی جگہ - جہ -

مَعَارِفٌ -

المَعْرُوفُ - مفع مشہور - غیر رزق - احسان

ارضٌ مَعْرُوفَةٌ - اچھی بو والی زمین -

العُرُوفُ - ایک درخت جو زم زمین میں اگتا

ہے - جہ - عُرَافُجُ -

العُرَافُجُ - وہ ریت جس میں راہ نہ ہو -

عُرُقُ دُنْ أَعْرُقًا وَمَعْرُقًا - الْعُظْمُ -



بڑی کے اوپر سے سارا گوشت کھاجاتا
کتے ہیں "عُرْقَتُهُ الْخُطُوبُ"
مصائب نے اس کو چاروں طرف سے
گھیر لیا۔ الطریقُ مِصَابَتٌ طے کرنا
در عُرْقًا وَعُرْقًا، فی الارضی۔
سفر کرنا۔

عُرْقُ عُرْقًا۔ دُلا ہونا، کم گوشت ہونا۔
عُرْقُ (رس) عُرْقًا۔ پسینہ آنا۔ صفت۔ عُرْقًا
۔ الحارِط۔ دیوار تر ہونا۔ الرجلُ
کاہل ہونا۔

عُرْقُ۔ پسینہ لانا۔ عُرْقُ وَاَعْدَقُ۔
الشَّجَرُ لمبی جڑ والا ہونا۔ عُرْقُ و
اَعْدَقُ الخمر۔ شراب میں تھوڑا سا
پانی ملنا۔ عُرْقُ وَاَعْدَقُ الْاِنَاءُ۔
برتن میں تھوڑا پانی ڈالنا۔ اَعْدَقُ
الرجلُ۔ عراق کی طرف ہونا۔ خاندانی
شریف ہونا۔

اَعْتَرَقَ الشَّجَرُ۔ لمبی جڑ والا ہونا۔
العظم۔ بڑی کا گوشت سب کھا لینا۔
۔ القومِ عراق کی طرف جانا۔ کتے ہیں
تَعُرْقَتُهُ الْخُطُوبُ۔ مصائب نے
اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔

اِسْتَعْرِقَ۔ پسینہ لینے کے لیے گرمی کے درپے
ہونا۔ الشَّجَرُ لمبی جڑ والا ہونا۔

العُرْقُ۔ بڑی جس سے گوشت اتار لیا گیا ہو۔
جہ۔ عِزَاتُ وِعِزَاتُ۔

العِرْقُ۔ اصل۔ مِنَ الْبَدَنِ۔ رگ۔
دشوار گذار پہاڑ۔ چھوٹا پہاڑ، تھوڑا پانی۔
شور زمین۔ دودھ، اولاد کثیر ریت کی
باریک اور لمبی دھاری۔ جہ۔ عُرْقُ و
اَعْوَاتُ وِعِزَاتُ۔ اَعْوَاتُ عِرْقِ
الْبَسَاءِ۔ درد کی ایک قسم جو ران سے
شروع ہو کر گھٹنے یا قدم تک پہنچتا ہے۔
العِرْقُ۔ مہ۔ پسینہ۔ دیوار کی تری، دودھ
جو نلکے رگوں سے کھینچ کر ظن میں پہنچتا ہے

دیوار میں کچی اینٹوں یا پتھروں کی قطار۔
عوام اسے مَدَّ كَأَنَّ كَتے ہیں۔ پہاڑ
کے راستے ایک قطار میں اینٹوں کے
چلنے کے نشان۔ دودڑ۔ کتے ہیں۔
"جَوَّی الْفَرْسُ عُرْقًا (وَعُرْقَيْنِ)"
گھوڑا ایک یا دو مرتبہ دودڑا۔ مِنَ
الْعَمْرِ کجور کا رس۔ عُرْقُ الْخِلَالِ۔

دوست کا عطیہ۔ عرق کا استعمال شراب
کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کتے ہیں۔ "لَقِيتُ
مِنْهُ عُرْقَ الْقُرْبَةِ وَتَجَشَّعْتُ
لَايِكَ عُرْقَ الْقُرْبَةِ" شدت اور
مشقت سے کنایہ کرتے ہیں مطلب یہ
کہ میں نے ایسی مشقت اٹھائی، جیسے
مشک کا اٹھانے والا اٹھاتا ہے کہ اس کو
بوچھک وچہ سے پسینہ آ جاتا ہے۔

العُرْقِيَّةُ۔ عامہ اور ٹوپی کے نیچے کا کپڑا۔
العُرْقُ والعُرْقَةُ۔ بہت پسینہ والا۔
العُرْقَةُ۔ اسمِ مرۃ۔ گوشت کا ٹکڑا۔ پہاڑی
راستہ۔

العِرْقَةُ۔ اصل۔ درخت کی جڑ کا ریشہ۔ جہ
عُرْقُ وِعِرْقَاتُ۔

العُرْقَاةُ والعِرْقَاةُ۔ اصل۔ درخت کی
جڑ کا ریشہ۔

العُرْقَاةُ وَالْعُرْقَوَةُ۔ ڈول کے منہ کی
لکڑی۔ جہ۔ العِرْقُ۔

العُرْقَةُ۔ دیوار میں کچی اینٹوں یا پتھروں کی قطار
گھڑوں یا پرندوں کی قطار۔ شہتیر۔ دھنی،
خیمہ کے ارد گرد کا پھندا۔ جہ۔ عُرْقُ و
عِرْقَاتُ۔

العِرْقُ وَالْمِعْرَقُ۔ شرافت خاندان۔ کسینہ
پن۔ غلام عِرْقُ۔ دبلا لڑکا۔ و
الاعِرْقُ صاحبِ اصل۔ کتے ہیں۔
"هُوَ عُرْقُ مِنْكَ فِي كَذَا" وہ تم
سے زیادہ فلاں چیز میں صاحبِ اصل ہے۔

العِرْقُ۔ طول میں سمندر کا کنارہ۔ پرکا جوف

۔ مِنَ الدَّارِ۔ گھر کا صحن۔ مِنَ الظُّلُمِ
ناخن کے آس پاس کا گوشت۔ مِنَ
الْأُذُنِ۔ کان کا گھیر۔ مِنَ الشَّهْرِ۔
ندی کا کنارہ۔ جہ۔ اَعْرَقَهُ، عُرْقُ،
عُرْقُ۔ والعِرْقُ۔ ملک عراق جو
عبادان سے مومل تک طولاً اور قادسیہ
سے حلوان تک عرضاً ہے۔ العِرْقَانِ۔
کوفہ، بھرہ۔

العِرْقُ۔ وہ بڑی جس کا گوشت کھا لیا گیا
ہو، کثیر باران۔ عِرْقُ الْخَيْبِ۔
روئیدگی بارش کے بعد کی۔

العِرْقَةُ۔ کثیر بارش۔
العِرْقُ۔ وارھیں۔

المِعْرَقُ۔ وہ چیز جس سے بڑی کا گوشت
اتاریں۔ چھری وغیرہ۔

رَجُلٌ مِعْرَقٌ وَمِعْرُوقٌ الْعِظَامِ۔ دُلا۔
عُرْقَبُ۔ الرجلُ۔ جیلہ کرنا۔ الدَّائِلَةُ۔
کوئین کا ٹٹا۔ کھڑا کرنے کے لیے کوئین
اٹھانا۔

تَعُرْقَبُ۔ جیلہ کرنا۔ عُرْقَبُ کے مانند ہونا۔
عَنِ الْأَمْرِ۔ باز رہنا۔ پہاڑی کی تنگ
راہوں میں چلنا۔ لِيَحْصِيَهُ۔ دشمن کے
لیے محفی طریقاً اختیار کرنا۔

العُرْقُوبُ۔ کوچ، ایڑی کے اوپر کا پٹھا۔
وادی کا موڑ، پہاڑی راہ۔ جیلہ۔ جہ۔
عِرْقَابِيْبُ۔ عِرْقَابِيْبُ الْأُمُورِ۔ مشکل
کام عِرْقُوبُ ایک شخص کا نام ہے جو جھوٹ
اور وعدہ خلافی میں مشہور تھا۔

عُرْقُصُ الْغُلَامِ۔ لڑکے کا ناچنا۔ عُرْقُصَتِ
الْحَيَّةِ۔ سانپ کا رینگنا۔

عُرْقَلُ۔ توسط سے ہٹ جانا۔ الْأَمْرُ۔
دشوار کر دینا۔ عَلَيْهِ الْكَلَامُ۔ ٹیڑھا کرنا۔

لَعُرْقَلُ۔ الْأَمْرُ۔ پیچیدہ ہونا۔ الْكَلَامُ۔
ٹیڑھا ہونا۔

العِرْقَالُ۔ گمراہ۔ کج رو۔

الْعَرَقِيلُ - انڈے کی زردی ۔
الْعَرَقِيلُ مِصْبَتِيں، عَرَقِيلُ الْأُمُورِ - دشوار
معاہلات ۔

الْعَرَقِيلُ - نازکی چال ۔
عَرَقُ دَن، عَرَقَا - الْأَدِيحَةُ - چڑے کو ملنا ۔
- هَذَا الدَّهْرُ - زمانے کا کسی کو تجربہ کار
بنادینا - الشَّيْءُ - رگڑتے رگڑتے مٹا
دینا - الْمَائِيَّةُ الْأَنْبَاءُ - جانور کا ساری
نباتات کو کھا جانا - الْمَائِيَّةُ الْأَرْضُ
چارے سے خالی کر دینا - عَرَقَا وَ
عَرَاكَ، عَرَوَاكَ الْمَرَاةُ - عورت کا
حائضہ ہونا کہتے ہیں : عَرَقَ الْأَذَى
بِجَبْنِهِ - اس نے مشقت اٹھائی
عَرَقَ دَس، عَرَقَا - سخت حملہ آور ہونا ۔
صفت عَرَقٌ ۔

عَارَكَهُ مَعَارَكَةً وَ عَرَاكَ - مقابلہ کرنا ۔
مزاحمت کرنا کہتے ہیں : أَوْرَدَا بِلَدِهِ
عَرَاكَ - سارے اونٹوں کو پانی پر لایا ۔
تَعَرَّكَ - الشَّيْءُ - مل جانا ۔

تَعَارَكَ الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے کے
ساتھ مقابلہ کرنا ۔
أَعْرَكَوْا - آپس میں جنگ کرنا - أَعْرَكَ
النَّاسُ فِي الْمَعْرَكَةِ أَوِ الْخُصُومَةِ

لوگوں کا میدان جنگ میں قتل و قتل کے
لیے ہل پڑنا - الْإِبِلُ فِي الْوَرْدِ -
اونٹوں کا گھاٹ پر بھیڑ کرنا - الرَّجَالُ
فِي الْحَرْبِ - انہو کرنا اور ایک
دوسرے کو رگڑنا ۔

الْعَرَكُ وَالْعَرَكُ - آواز ۔
الْعَرَكِيُّ - مچھلی کا شکار ۔ جہ - عَرَكٌ ۔
جہ - عَرَوُكٌ ۔

الْعَوَكَةُ - بار بار کہتے ہیں - لَقِيتُهَا
عَوَكَةً وَ عَوَكَاتٍ ۔
الْعَوَكَةُ - مشقت برداشت کرنے والا ۔
الْعَوِيكَةُ - کوہان، نفس، طبیعت، عادت ۔

کہتے ہیں - فَلَانٌ لَيْتُنِ الْعَرِيكَةَ - یعنی
نرم نو ہے - هُوَ شَدِيدُ الْعَرِيكَةِ - وہ
سخت مزاج ہے - جہ - عَرَايَكُ ۔

الْمَعْرَكُ وَالْمَعْرَكَةُ وَالْمَعْرَكَةُ - میدان
جنگ - جہ - مَعَارِكُ ۔

الْمُعْتَرَكُ - میدان جنگ - مُعْتَرَكُ الْمَنَابِتِ -
ساتھ ستر کے درمیان انسانی عمر ۔

الْمَعَارِكُ - جنگجو، سخت حملہ آور ۔
الْمَعْرُوكُ - مفع - مَاءٌ مَعْرُوكٌ - جہاں

بھیڑ ہو - اَرْضٌ مَعْرُوكَةٌ - جس زمین کو
جانوروں نے چر کر صاف کر دیا ہو ۔

رَمْلٌ مَعْرُوكٌ وَ عَرِيكٌ - جمع شدہ
ریت، ایک دوسرے میں داخل ۔

عَرَكَسَ - الشَّيْءُ - تہ برتہ ہونا - الشَّيْءُ -
تہ برتہ کرنا ۔

أَعْرَنَكَسَ - جمع ہونا اور تہ برتہ ہونا ۔
الْمَقْعُ - بال سخت کا لے ہونا ۔

عَرَمَ دَن مَن، عَرَمًا - الْعَظْمُ - ہڈی
سے گوشت اتارنا - الصَّبِيُّ أُمَةً -

بچہ کا ماں کا دودھ پینا - الْإِبِلُ الشَّجَرِ -
اونٹ کا درخت کے پتے کھانا - فَلَانًا -

تکلیف پہنچانا ۔
عَرَمَ دَن مَن، عَرَمًا دَعَرَمَ دَس - دَعَرَمَ
دَك، عَرَمًا مَةً - شدید ہونا - شَوْخَ ہونا ۔

خوش ہونا - بَدَلُقَ ہونا - خراب ہونا ۔
صفت عَرَمٌ وَ عَارِمٌ ۔

عَرَمَ - الشَّيْءُ - غلط ملط کرنا ۔
أَعَرَمَ - بے گناہ پر تہمت لگانا ۔

تَعَرَمَ - الْعَظْمُ - ہڈی سے گوشت اتارنا ۔
تَحْلِينًا - بہت زیادہ خوش ہونا اور اکرنا ۔

أَعْتَرَمَ الْفَرَسُ - گھوڑے کا دور و در قدم
رکھنا - مَنَزُورَ ہونا - الصَّبِيُّ تَدْنِي

أُمَةً - بچہ کا ماں کے پستان کو چوسنا ۔
الْعَارِمُ - فَا - بَدَلُقَ مَوَظِي - جہ - عَرَمَةٌ ۔

مَوَظِي عَارِمَةٌ - جہ - عَوَارِمٌ وَ

عَارِمَاتٌ - يَوْمٌ عَارِمٌ - نہایت
ٹھنڈا دن ۔

الْعَرَمُ - چکنا بٹ ۔
الْعَرَمُ وَالْعَرَمَةُ - سیاہی سپیدی ملی ہوئی ۔

چھوٹے چھوٹے میاہ سپید نقطے بکری کے
ہونٹ کی سپیدی، ایسی بکری کو عَرَمَاءُ

اور بکرے کو اعرم کہتے ہیں (وَالْعَرَمَةُ)
گیہوں کا ڈھیر جو دائیں چلانے کے بعد

بھوسہ نکالنے کے لیے جمع کیا جاوے ۔
الْعَرَمَةُ - کھانے کی ٹو - الْعَرَمُ - ٹانڈی کا میل ۔

الْعَرَمَةُ - وہ پستہ جو وادی کے عرض میں ہو - جہ
عَرَمٌ يَاعَرَمُ - کا لفظ ایسی جمع ہے جس کا

کوئی واحد نہیں - الْعَرَمُ - زرخیز - شدید
بارش، وادی، وادی کے پستے ۔

الْعَرَمُ - سنگ خوار پرند کا انڈا ۔
الْعَرَامُ - مِنَ الْجَبَشِ - فوج کی تیزی و کثرت

- مِنَ الرَّجُلِ - بَدَلُقَ - کہتے ہیں : "بہ
شَوْخَ وَ عَرَامٌ" - اس میں تیزی اور بد بھلائی

ہے - ٹانڈی کا میل ۔
الْعَرِيْمَةُ مِصْبَتٌ - جہ - عَرَمَانٌ ۔

الْأَعْرَمُ - رنگ بزرگ، غیر مستقل - ریلوٹ بھیڑیا
بکری کا - غیر محنت - جہ - عَرَمَانٌ، جہ

عَرَامِيْنٌ ۔
الْعَرَمَاءُ مَوَظِي أَعْرَمَ جَتِي دَارِ سَابِ -

الْعَرَمُومُ - سخت - بے شمار لشکر ۔
الْعَرَمِيْسُ - چٹان - مضبوط اونٹنی ۔

الْعَرَمَضُ وَالْعَرَمَاضُ - کائی ۔
عَرَنَ دَن مَن، عَرَنًا - السَّهْمُ - تیروں

کو ترتیب سے رکھنا - عَلَى الشَّيْءِ -
کسی چیز کا عادی ہونا - الْبَعِيْرُ - اونٹ

کی ناک میں لکڑی ڈالنا ۔
عَرَنَتْ دَس، عَرَنًا - الدَّابَّةُ - عُزْبُ کی

بیاری لگنا - صفت برائے نکر عَرَنٌ - و
برائے مَوَظِي عَرُونٌ عَرِيكَةٌ - و

عَرَنًا، گھردور ہوا ۔





عَوْنٌ - التَّمَعُّمُ - نیزے میں میخ لگانا
 اَعْوَنَ الرَّجُلُ - ہمیشہ گوشت کھانا۔
 العَوْنُ - مع۔ پکا گوشت، دھواں۔
 العَوْنُ والعَوَانُ والعَوْنَةُ - وہ بیماری جس
 میں جانور کے پچھلے پاؤں کے بال گر جاتے
 ہیں۔ جانور کے پاؤں کا پھٹنا۔
 العَوَانُ - وہ کڑی ہواؤں کے ناک میں
 ڈالی جائے۔ دوری، بجو کا بھٹ، نیزہ
 کی میخ، ہمسہ، جنگ۔
 العَوْنُ - صحن، بھاڑی، گوشت، آواز، شیر
 وغیرہ کا پھاڑا ہوا۔ عزت۔ جر۔ عَوْنٌ۔
 د۔ والعَوْنَةُ شیر، بجو اور بھیڑیہ کی
 بھاڑی، سانپ کی لمبی
 العَوْنِيَّةُ - ناک، ناک کا سخت حصہ، سردار۔
 - مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - ہر چیز کا پہلا حصہ۔ جر
 عَوْنِيَّةٌ۔
 العَوْنَانُ - پہاڑ کا نکلا ہوا حصہ۔ ایک پرندہ
 کبوتر کے مانند۔ کڑی یا لوسے کا ٹکڑا۔
 جس میں کاتنے والی روئی کے گالے کو
 لپیٹ کر کاتی ہے، جو اس کا بھٹ، عام لوگ
 عَوْنُوْسٌ کہتے ہیں۔ جر۔ عَوْنِيْسٌ۔
 عَوَا يَعْرُوْ عَرَوًا - فَلَا نَأْمُرُ بِشَيْءٍ آتَا
 فَلَانَا عطیہ مانگنے کے لیے ارادہ کرنا۔
 صفت فاعلی عاید اور مفعول مَعْرُو۔
 الْقَيْمِيَّةُ - کاج بنیاد۔ وعُورِي، بخار
 کی سردی لگی۔ صفت عاید۔ جر۔ عَوَاةٌ
 مَعْرُوَةٌ اور عُوْرِي الرَّجُلُ - خوف
 سے پکپکانا۔
 اَعْرَى وَعُرَى - الْقَيْمِيَّةُ - کُرتے میں
 کاج بنانا۔ اَعْرَى صَاحِبَةٌ - چھوڑ دینا۔
 اَعْرَى اَعْرَاءٌ فَلَانَا عطیہ مانگنے کے
 لیے جانا۔ اَعْرَاهُ اَمْرٌ لَاحِقٌ ہونا۔
 العُرُوْ گورنہ۔ وہ شخص جو معاملات کا
 اہتمام نہ کرے۔ لوگوں کا گروہ۔ جر۔
 اَعْوَاءُ کہتے ہیں: اَنَا عُرُوْمِيْنَ كَذًا

میں فلاں چیز سے خالی ہوں۔ دیکھا
 اَعْوَاءُ مِنَ النَّاسِ - اس کے ساتھ
 گروہ ہے۔
 العُرُوْا - بخار کی سردی۔
 العُرُوْةُ - مِنَ الْبُرَيْقِ وَنَحْوِهِ - چھاگل
 اور لوٹے کا دستہ۔
 العُرُوْةُ والعُرَى والعُرَى - کاج
 مَعْرُوَةٌ - گنجان درخت، وہ درخت جس
 کے پتے جاڑے میں نہ گریں، نفیس مال۔
 قابل اعتماد چیز۔ کہتے ہیں: اَنَا عُرُوْةٌ
 مِنْهُ میں اس سے خالی ہوں۔ اَلْقَى
 اِلَيْهِ الْعُرَى - اس نے فلاں کو معاملہ
 سپرد کر دیا۔
 عُرَى يَعْرَى عُرِيَّةً وَعُرِيًّا - مِنْ تِيَابِه
 ننگا ہونا۔ صفت عاید و عُرِيًّا - جر
 عَرَاةٌ مَوْنَتٌ عَادِيَّةٌ وَعُرِيًّا نَهْ
 جر۔ عَوَارِدُ عَارِيَاتٍ - عُرَى مِنْ
 الْعَيْبِ وَتَحْبِيْرُهُ - عیب وغیرہ سے
 پاک ہونا۔ صفت عیر۔ د۔ عُرَى
 اللَّيْلَةُ - رات ٹھنڈی ہونا۔
 عَرَاةٌ يَعْرِيْهِ عُرِيًّا - الْأَمْرُ بِشِ آنا۔
 عُرَى تَعْرِيَّةٌ - الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَمِنْ
 الثَّوْبِ - ننگا کرنا۔ د۔ مِنَ الْأَمْرِ۔
 عَلَّاهُ کرنا۔ چھڑ لینا۔ الرَّجُلُ - بیکار
 کر دینا، چھوڑ دینا۔ الشَّيْءُ - دستہ لگانا۔
 کہتے ہیں: عَرَاةٌ بَعْرَى وَثَبِيْقَةٌ
 مضبوط دستہ لگایا۔
 اَعْرَى اَعْرَاءٌ - الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَمِنْ
 الثَّوْبِ - ننگا کرنا۔ کپڑے اتار لینا۔
 فَلَانَا التَّخْلَةُ - ایک سال کے لیے
 پھل بہہ کرنا۔ فَلَانَا مَصْدُوقَةٌ - دور
 ہونا اور مدد نہ کرنا۔ الرَّجُلُ - رات
 کی ٹھنڈ لگنا۔ کھلے میدان میں چلنا۔ یا
 اقامت کرنا۔
 تَعْرَى تَعْرِيًّا - مِنْ تِيَابِه - کپڑے اتار

لینا۔ ننگا ہونا۔
 اَعْرَوْرِي اَعْرِيَاءٌ - تنہا سفر کرنا۔ الفرس
 ننگی پیٹھ سوار ہونا۔ اَمْرًا قَبِيْحًا۔
 برا کام کرنا۔
 العُرَى - گوشہ، میدان، سردی۔
 العَرَاءُ - کھلا میدان۔ جر۔ اَعْرَاءُ۔
 العَرَاةُ - میدان۔ مکان کا صحن۔ سردی کی
 شدت۔
 فَرَسٌ عُرَى - ننگی پیٹھ والا گھوڑا۔ بغیر زین کا
 گھوڑا۔ جر۔ اَعْرَاءُ۔
 الْأَعْرَاءُ - آزاد۔ بے پرواہ۔ فاصد عُرَى۔
 الْعُرِيَّةُ وَالْعُرِيَّةُ - ننگاپن۔
 الْعَارِيَّةُ - ادھار چیز۔
 الْعُرِيَانُ - ننگا۔ عُرِيَانُ النَّجِي - جو اپنے
 بھید کو نہ چھپائے۔
 الْعُرَى - ٹھنڈی ہوا۔
 الْعُرِيَّةُ - ٹھنڈی ہوا، کھجور کا درخت جس کا
 پھل کھالیا گیا ہو۔ کھجور کا درخت جس
 کے مالک نے دوسرے کو پھل کھانے کے
 لیے دے دیا ہو۔ جر۔ عَرَايَا۔ کہتے ہیں۔
 نَخْلُهُمْ عَرَايَا - ان کے کھجور کے درخت
 بہہ شدہ ہیں، وہ سخاوت کی بنا پر دوسروں
 کو دے دیتے ہیں۔
 الْمَعْرَى اَوِ الْمَعْرَاةُ - ننگاپن۔ بدن کا وہ
 حصہ جو کپڑوں سے نہ چھپایا جائے جیسے
 ہاتھ چہرہ وغیرہ۔ جر۔ مَعَارٍ - الْمَعَارِي
 بنہر مقامات۔ بختو۔
 عَزْرٌ دَنْ، عَزْرٌ اَوْ عَزْرَةٌ وَعَزَاةٌ - عزیز ہونا
 قوی ہونا۔ کمزور ہونا۔ الشَّيْءُ - قلیل ہونا
 کم یا ب ہونا۔ دشوار ہونا۔ الْمَاءُ - ہٹنا۔
 عَزْرٌ عَلَيْهِ عَزْرًا كَرِيْمٌ ہونا کہتے ہیں۔
 عَزْرٌ عَلَيَّ اَنْ تَفْعَلَ - مجھے اس سے
 کہ تم ایسا کرو۔
 عَزْرَةٌ دَنْ، عَزْرَةٌ - قوی کرنا۔ عزت کی
 کوشش میں غالب کرنا۔

عَزَّوَجَلَّ - مدد کرنا۔ عزت کرنا۔ مغز بنانا۔
 عَزَّوَجَلَّ مُعَانَةً - حصول عزت میں مقابلہ کرنا۔ گفتگو میں غالب ہونا۔
 أَعَزَّهُ إِعْزَانًا - عزیز بنانا۔ محبت کرنا۔
 أَعَزَّتِ الْبَقْرَةُ - وضع حمل دشوار ہونا۔ کہتے ہیں: "أَعَزَّتْ بِمَا أَصَابَكَ" جو کچھ تم پر گزری، مجھ اس سے تکلیف ہوئی۔
 لَعَزَّ قَوًى ہونا۔ بہ۔ اپنے آپکو طاقتور سمجھنا۔ فخر کرنا۔ علی فلاں۔ بزرگی جتاننا۔ غالب آنا۔
 لَعَزَّ قَوًى ہونا۔ بہ۔ فخر کرنا۔ لَحْمَةً سخت اور ٹھوس ہونا۔
 لَسْتَعَزَّ - علیہ۔ سختی کرنا۔ غالب ہونا۔
 اللَّهُ يَفْلَانُ - مار دینا۔ کہتے ہیں۔
 يَسْتَعَزُّ بِحَقِّي - وہ میرے اوپر غالب آگیا۔ اُسْتَعَزَّ بِعَيْنِي - بیماری کا بڑھنا اور اس کی عقل پر غالب آجانا۔
 الْعُزُّ - عزت۔ سخت بارش۔ رَجُلٌ عِزٌّ - قوی، کہتے ہیں: "جِئْ بِهٖ عِزًّا بَلًّا" جس طرح ہو سکے لے آؤ۔
 الْعُزَّةُ - ہرن کا مادہ بچہ۔
 الْوِزَّةُ - مقابلہ حصول عزت میں غالب آنا غیرت۔
 الْعِزِيُّ - شریف، قوی، نادر۔ معزز۔ وہ بادشاہ جس کا حصول دشوار ہو اور کسی سے مغلوب نہ ہو سکے، نہ کوئی اسے عاجز کر سکے اور اس جیسا کوئی نہ ہو۔
 اللَّهُ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ ج۔ عَزَّازٌ وَاعِزٌّ أَوْ عِزَّةٌ - مصر کے حاکم کا لقب۔
 الْأَعِزُّ - اسم تفضیل۔ عزیز۔
 الْعُزْبَى - عزیزہ، شریفہ، اَعَزُّ کا مؤنث۔
 ایک قریشی بُت کا نام۔
 الْعَزَّاءُ - سختی، سخت سال۔ بڑی بوند کی

بارش۔
 الْيَعْزَانُ - سخت مرض والا۔
 الْمَعْزُورَةُ - سختی۔ وہ زمین جس پر سخت بارش ہوئی ہو۔
 عَزَبَ دَنٌ - عَزْبَةٌ وَعَزُوبَةٌ - بے شوہر کے ہونا۔ مجرد ہونا۔
 عَزَبَ دَنٌ - دور ہونا۔ غائب ہونا۔ پوشیدہ ہونا۔ صفت عازب - عَزَبَتْ الارضُ - زمین ویران ہونا۔
 عَزَبَ دَنٌ - دیر تک غائب رہنا۔ شروع کیے ہوئے کو چھوڑ دینا۔
 أَعَزَبَ - دور ہونا۔ دور کرنا بے شوہر کر دینا۔
 تَعَزَّبَ - مجرد رہنے کے بعد گھر آباد ہونا۔
 الْعَازِبُ - فا۔ دور کی چراگاہ۔
 الْعَازِبَةُ - مؤنث عازب۔ بیوی۔ ج۔
 عَوَّازِبُ - عَوَّازِبُ -
 الْعَوَّزُ - وہ مرد یا عورت جس کا جوڑا نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ مرد کے لیے عَوَّزُ اور عورت کے لیے عَزْبَةٌ آتا ہے۔ ج۔
 عَوَّازِبٌ وَاعْزَابٌ -
 الْأَعْوَبُ - جس کے اہل و عیال نہ ہوں۔ وہ شخص جو اپنے مال اور اہل و عیال سے دور ہو۔ مؤنث عَزْبَةٌ۔ ج۔ عَوَّزُ
 الْيَعْزَابَةُ - باندی، لونڈی۔ د۔ وَالْيَعْزَابَةُ - بیوی۔
 الْيَعْزَابُ وَالْيَعْزَابَةُ - جو شخص اپنے جانوروں کو چرانے دور لے جائے۔ الْيَعْزَابَةُ - جس کے اہل و عیال نہ ہوں، جو دیر تک کنوارہ رہے۔
 عَزَبَ دَنٌ - عَزَبًا - الرَّجُلُ - دفع کرنا۔
 - الارضُ بِالْمُحَاقَاةِ - پیچھے سے زمین کو الٹ پلٹ کرنا۔ جماع کرنا۔
 عَزَبَ دَنٌ - عَزَبًا - جماع کرنا۔
 عَزَبَ دَنٌ - عَزَبًا - ملامت کرنا۔ مدد کرنا۔

جماع کرنا۔ عَنِ كَذَا - منع کرنا۔
 واپس کرنا۔ عَنِ الْأَمْرِ - خبر دینا۔
 عَنِ الْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ - فرائض و احکام سے واقف کر دینا۔
 عَزَبَ دَنٌ - ملامت کرنا۔ ادب دینا۔ بست مارا، تعظیم کی مدد کی۔
 الْعَوَّزُ وَالْعَوَّزَةُ - بد اخلاق۔
 الْعَوَّزَةُ - مؤنث عوز۔ ٹیلہ۔
 الْعَوَّازَةُ - لکڑیاں۔ درختوں کا بقایا رہنے والا (جمع ہے)۔
 الْعَزِيْزُ وَالْعَزَائِمُ - کٹی گھاس کی قیمت۔
 عَزَّارِيْلُ - ملک الموت کا نام۔
 عَوَّزَةٌ - عزت میں غالب آنا۔
 عَزَّطَ دَنٌ - عَزَّطًا - جماع کرنا۔
 عَزَفَتْ دَنٌ - عَزَفًا وَعَزُوفًا -
 يَنْفُسُهُ عَنِ الشَّيْءِ - بے رغبتی کرنا۔
 ملول ہونا۔ عَزَفًا، نَفْسُهُ عَنِ كَذَا - منع کرنا۔ عَزَفًا وَعَزُوفًا - آواز دینا۔ گالی دینا۔
 عَزَفَ - آواز دینا۔
 آعَزَفَ - ہوا کی سرسراہٹ سننا۔
 تَعَاَزَفُوا - ایک دوسرے کے سامنے رجز پڑھنا۔ آپس میں فخر کرنا۔ ایک دوسرے کی ہجو کرنا۔
 اِعْزَوْزَت - اِلْتَشَر - برائی کے لیے آمادہ ہونا۔
 الْعَازِفُ - آلاتِ لہو و لعب سے کھیلنے والا۔ گویا۔
 الْعَوْفُ - صدائے دف۔ ہوا کی سرسراہٹ۔
 الْعَوْفُ - صحرائی کبوتر۔
 الْعَوْفُ وَالْعَوْفَةُ - جو شخص دوستی پر قائم نہ رہے، کہتے ہیں: "هُوَ عَوْفٌ عَنِ الدَّهْوِ" وہ لہو و لعب سے دور رہتا ہے۔ ج۔ عَزَافٌ وَعَزُوفَةٌ - تائے مبالغہ ہے تائیس کے لیے نہیں ہے۔





التَّعَزَّاتُ بِمعنى عزوف - مم -
التَّعَزَّاتُ - بہت باجا بجانے والا - بہت گانے والا - سحابِ عَزَّاتُ - بادل جو بہت گر جتا ہو -

لِیَعْزُوفُ وَالْمَعْزُوفَةُ - گانے بجانے کے آلات - جر - مَعَارِضُ - عَزَقُ دَن، عَزَقًا - تیز دوڑنا - الْخَبِيرُ عَنِّي - روک لینا - هُ ظَرْبًا - خوب مارنا عَزَقُ رَضٍ، عَزَقًا - الارض - زمین کو کھودنا - کھود کر پانی نکالنا -

عَزَقُ دَس، عَزَقًا - بہ - چکنا - الْعَزَقُ - بد اخلاق - جر - عَزَقٌ - الْعَزُوقُ وَالْعَزُوقُ - بستہ بے مغز - رَجُلٌ عَزُوقٌ - سخت مزاج - بخیل بد عادت -

الْعَزِيقُ - مِنَ الارض - پست زمین - الِیْمَعِزُّ وَالْمِعْزَقَةُ - آہ جو ہوا میں اٹا کر گیوں کو صاف کرتا ہے - کھودنے کے اوزار جیسے پھاوڑا - کمال پیلچہ - جر - مَعَارِضُ -

الْمُتَعَزِّقُ - بد اخلاق انسان - عَزَلَهُ رَضٍ، عَزَلًا - عن کذا - جدا کر دینا - فُلَانًا عَنْ مَنْصِبِهِ - علیحدہ کر دینا - معزول کر دینا - عَنْ عَمَلِهِ - باز رکھنا -

عَزَلَهُ - ایک جانب کر دینا - تَعَزَّلَ وَاعْتَزَّلَ الشَّيْءُ وَعَنْهُ - جدا ہونا - تَعَاَزَل - القوم - ایک دوسرے سے جدا ہونا -

الْعَزَلُ - بے ہتھیار رہنے والا ہونا - عَزَلُ الْحِمَارِ - گدھے کا پچھلا حصہ - الْعَزَلَةُ - سرین کی بڑی کاسرا - جو بیٹھنے پر زمین پر لگتا ہے -

الْعَزَلُ وَالْعِزَالُ - کمزوری - الْعُزْلَةُ - جدائی - گوشہ نشینی -

الْعُزْلُ - بے ہتھیار مرد - جر - اَعْزَالُ - الِاعْزَالُ - ریت کا اکیلا ڈھیر - بادل جس میں بارش نہ ہو - بے ہتھیار - جر - عُزْلٌ وَ اَعْزَالٌ وَ عُزْلٌ وَ عُزْلَانٌ - مؤنث - عَزْلَاؤُ - الِاعْزَالُ مِنَ الدَّوَابِّ - دُم کو جھکا کر رکھنے والا - مِنَ الطَّيْرِ - وہ پرند جو اڑنے پر قادر نہ ہو -

الِاعْزَالُ - نام ایک ستارہ کا جس کا مقابل راہِ مہر ہے -

الْعَزْلَاؤُ - الِاعْزَالُ کا مؤنث - دُبر، مشک کا منہ - جر - الْعِزَالِي وَالْعِزَالِي - کہتے ہیں "أَنْزَلْتُ السَّمَاءَ عَزْلًا إِلَيْهَا" آسمان نے دھانے کھول دیے - شدت بارش - کہتے ہیں "هُوَ عَنِ الْحَقِّ بِمَعْزَلٍ" وہ حق سے دور ہے -

الْمُعْزِلَةُ وَالْعُزَالُ - قدریہ کی ایک جماعت جو اہل سنت و جماعت و خوارج کو گمراہ سمجھ کر علیحدہ ہو گئے تھے - الِیْعُزَالُ - علیحدہ چرنے والا - سفر میں الگ اترنے والا - خود رائے، بے ہتھیار - کمزور احمق - جر - مَعَارِضُ -

عَزَلَبَ عَزْلَبَةً - جماع کرنا - عَزَمَ رَضٍ، عَزَمَادٌ عَزَمًا وَمَعْزَمًا وَمَعْزَمًا عَزِيمًا وَعَزِيمَةً - وَعُزْمَانًا - الامر و علیہ - پختہ ارادہ کرنا - الرَّجُلُ - کوشش کرنا - الامر - واجب ہونا - فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ - قسم دینا - کہتے ہیں "عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لَا فَعَلْتَ" اَوْ لَمَّا فَعَلْتَ - قسم دیتا ہوں کہ وہ عَزَا الرَّاقِي - منتر پڑھنا -

اَعْتَزَمَ الامر و علیہ - ارادہ کرنا - الطریق - بغیر ٹھہرے گزنا - الْفِدْسُ فِي عَيْنَانِهِ - سرکشی کرنا - تَعَزَّمَ الامر و علی الامر - ارادہ کرنا -

الْعُزْمُ - پختہ ارادہ - الْعُزْمَةُ - فائدہ نازل - جر - عَزَمٌ - الْعَزْمَةُ - حق واجب - جر - عَزَمَاتُ - عَزَمَاتُ اللَّهِ وَ عَزَائِمُ اللَّهِ - اللہ کے حقوق و فرائض - کہتے ہیں "مَا لَكَ عَزْمَةٌ" اس کو ثبات و صبر نہیں - الْعَزْمِيُّ - کھل بیچنے والا - وفادار - عہد کو پورا کرنے والا -

أُمُّ الْعِزْمِ وَالْعِزْمَةُ وَأُمُّ عِزْمَةٍ - دُبر - الْعِزْمَةُ - تیز دوڑ -

الْعِزْمَةُ - پختہ ارادہ - منتر - جر - عَزَائِمُ - الْعَازِمُ - فا - جر - عَزْمَةٌ وَ عَزَائِمُونَ - أَمْرٌ عَازِمٌ - وہ کام جس کا پختہ ارادہ ہو - الْعِزْمُ - اپنے عزم پر قائم رہنے والا - بڑھیا عورت - دُبر - جر - عَزْمٌ -

الْعِزَامُ - صیغہ مبالغہ ریشہ - الْمُعْزَمُ - فا - منتر پڑھنے والا - عَزَا يَعْزُو عَزْوًا - الشَّيْءُ اَوْ فُلَانًا إِلَى فُلَانٍ - نسبت کرنا - عَزَاءُ الرَّجُلِ - صبر کرنا -

عَزَا يَعْزُو عَزْوًا وَ تَعْزِي تَعْزِيًا اِعْتَزِي اِعْتِزَاءً - بَقْلَانٍ وَ إِلَى فُلَانٍ - منسوب ہونا - اپنے آپ کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا - خواہ یہ سچ ہو یا جھوٹ اسم عزا ہے - اسی سے ہے اِعْتَزِي بِعِزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ -

الْعِزَّةُ - گروہ مردم - جر - عِزِّي وَ عِزُونٌ - الْعِزْوَةُ - انتساب، صبر - عِزِّي يَعْزِي عِزِيًا - الشَّيْءُ اَوْ فُلَانًا إِلَى فُلَانٍ - نسبت کرنا -

عِزِّي يَعْزِي عِزَاءً مِصِيبَتٍ پر صبر کرنا - صفت مذکر عِز - صفت مؤنث عِزِيَّةٌ - عِزِّي تَعْزِيَةً - الرَّجُلُ - تسلی دینا - تَعْزِي تَعْزِيًا - الیہ - منسوب ہونا - عنہ صبر کرنا - تسلی حاصل کرنا -

تَعَاذَنِي تَعَاذِيَا - الْقَوْمُ. ایک دوسرے کو تسلی دینا۔

الْعَزِي. صابر۔

الْعِزِيَّة. انتساب۔

الْإِعْزَاؤُ. دعویٰ کرنا۔ جنگ میں کوئی خاص علامت۔

عَسَنَ (ن)، عَسَاوُ عَسَسَا. رات میں پاسانی کرنا۔ الْعَبْرُ. دیر سے پہنچنا۔

عَسَنَ الْقَوْمُ. بھوڑا کھانا کھلانا۔

الرَّعَسُ. رات کے وقت مشتبہ لوگوں پر مطلع ہونا۔

الْمَشْيُ. رات میں طلب کرنا۔ یا

قصد کرنا۔ الْبَلَدُ. شہر میں داخل ہونا اور

حالات سے مطلع ہونا۔

الرَّعَسُ. رات کے چوکیدار، یہ عَاسُ کی جمع ہے۔

الرَّعَسُ. بڑا پیالہ، بڑا برتن۔ ج۔ عَسَاسُ،

عَسَسَةً وَأَعَسَاسُ وَعُسُسٌ.

الرَّعَاسُ. رات کا پاسبان۔ ج۔ عَسَسُ و

عَسِيْسٌ.

الرَّعَاسُ. رات کا پاسبان۔

الرَّعُوسُ. وہ اونٹنی جو دو دو ہوتے وقت

بدکے، بے برکت مرد شکار کو ڈھونڈنے

والا۔

الرَّعَسُ. مطلب۔

أَعَسَبَ - الذَّبَابُ. بھیڑیے کا بھاگنا۔

أَعَسَبَهُ جَمَلُهُ. اونٹ عاریت پر دینا۔

أَسْتَعَسِبَ مِنْهُ. ناپسند کرنا۔ فَلَانًا

جَمَلُهُ. اونٹ عاریت پر لینا۔

الرَّعَسُ. نسل، کہتے ہیں: قَطَعَ اللَّهُ

عَسْبَهُ. اللہ اس کی نسل منقطع کر دے۔

الرَّعَسِيَّةُ. اسم مرءہ۔ پہاڑ کی شکاف۔

الرَّعُوسُ. بڑا رئیس۔

الرَّعِيبُ. دم کی ہڈیاں یا وہاں پر بال اگنے

کی جگہ پشت پا۔ وہ مجھ کی ٹہنی جس کے

پتے توڑ دیے گئے ہوں۔ پہاڑ کا شکاف۔ ج۔

عَسَبَ وَعُسِبَ وَعُسْبَانٌ.

الرَّعُوسُ. زکھی شہد کی، شہد کی کمیوں کا

بادشاہ۔ رئیس اعظم۔ کہتے ہیں: هُوَ

الرَّعُوسُ قَوْمُهُ. وہ اپنی قوم کا رئیس

اعظم ہے۔ ایک چھوٹا پرندہ گھوڑے کے

پہرے کی سپیدی۔ ج۔ الرَّعِيبُ.

الرَّعِيبُ. چیتا۔ ج۔ عَسَابُ.

الرَّعِيبُ. مادہ پیتا۔ تیز رفتار اصل اونٹنی۔

الرَّعِيبُ. بچہ کے مشابہ ایک دندہ جو افریقہ

میں پایا جاتا ہے۔ بھیڑیے کا بچہ۔

الرَّعِيبُ وَالرَّعِيبُ. کہتے کا پلٹا جس کی

ماں بھیڑن ہو۔

عَسِجَ (ن) ض. عَسَجَاوُ عَسَجَانًا وَعَسِيجًا.

چنے میں گردن کو اٹھانا۔

الرَّعِيبُ. الشَّيْخُ. بوڑھے آدمی کی کمر کا

ٹھٹھا ہونا۔

الرَّعِيبُ. ایک درخت کا ٹٹے دار۔ واحد

عَوَسَجَةٌ.

الرَّعِيبُ. سونا۔ جواہرات جیسے موتی یا قوت

وغیرہ۔ موٹا مضبوط اونٹ۔

الرَّعِيبُ. شامی سواریاں۔ دراصل ان

اونٹوں کو کہا کرتے تھے جو نعلین بن مندر

شاہ جیرہ کے لیے تیار کیے جاتے تھے۔

عَسَجَ - الطَّعَامُ. کھانے میں نمک ڈالنا۔

الرَّعِيبُ. تیز نظر سے دیکھنا۔

الرَّعِيبُ. نمک۔

عَسَدَ (ن) ض. عَسَدًا - الرَّعِيبُ. رسی کو

مضبوط بنانا۔ جابریتہ۔ جارح کرنا۔

الرَّعِيبُ. بہت مضبوط، سانپ۔

عَسَدَ (ن) ض. عَسَدًا وَعَسَدًا - الرَّعِيبُ.

قرضدار سے روپیہ طلب کرنا۔ جب کہ وہ

تنگ دست ہو۔ الرَّعِيبُ. سخت ہونا۔

عَلَى فَلَانٍ مَخَالَفَ هُونًا - عَلَيْهِ

مَا فِي بَطْنِيهِ - جو کچھ پیٹ میں ہو اس کا

مشکل سے نکلنا۔

عَسَدَ (ن) ض. عَسَدًا - بائیں طرف سے آنا۔

عَسَرْتُ عَسْرًا وَعَسْرَانًا - اِنْقَاظُ

اذنی کا دوڑنے میں دم اٹھانا۔ الرَّعِيبُ

ولادت کا دشوار ہونا۔

عَسَرْتُ (ن) ض. عَسْرًا - بائیں ہاتھ سے کام کرنا۔

صفت مذکر عَسْرٌ - صفت مؤنث عَسْرَاءُ

ج۔ عَسْرٌ.

عَسَرْتُ (ن) ض. عَسْرًا وَعَسْرًا وَعَسْرًا و

مَعْسُورًا وَعَسْرًا وَعَسْرًا و

عَسَارَةً - دشوار ہونا کہتے ہیں: عَسْرٌ

عَلَيْهِ الْأَمْرُ - کام دشوار ہونا۔ الرَّعِيبُ

بذلتی ہونا۔ صفت عَسْرٌ وَعَسِيرٌ.

عَسَرْتُ - الْأَمْرُ - دشوار کرنا۔ عَلَيْهِ تَنَگ

کرنا۔ مخالف کرنا۔ هُ - بائیں طرف

سے آنا۔

أَعَسَرَ تَنَگ دست ہونا۔ الرَّعِيبُ.

قرضدار سے تنگ دستی میں طلب کرنا۔

الرَّعِيبُ. ولادت کا دشوار ہونا۔

عَسَرْتُ (ن) ض. عَسْرًا - تنگی کا معاملہ کرنا۔

تَعَسَّرَ وَتَعَسَّرَ - عَلَيْهِ الْأَمْرُ - دشوار

ہونا۔ پیچیدہ ہونا۔ عَلَيْهِ الْقَوْلُ -

مشتبہ ہونا۔ تَعَسَّرَ الْبَيْعَانِ - بارے اور

مشتی متفق نہ ہوئے۔

الرَّعِيبُ. مجبور کیا۔ الْكَلَامُ. فی البدیہہ کہا۔

الرَّعِيبُ. دشوار پانا۔ الْأَمْرُ

عَلَيْهِ - سخت پیچیدہ ہونا۔

الرَّعِيبُ وَالرَّعِيبُ. تنگ دستی، سختی، تنگی۔

الرَّعِيبُ وَالرَّعِيبُ وَالرَّعِيبُ وَالرَّعِيبُ و

الرَّعِيبُ. تنگی، سختی۔

الرَّعِيبُ. بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔

کہتے ہیں: فَلَانٌ أَعَسَرَ يَسْرًا دُونِ

بِأَمْرٍ سَیِّئٍ - یومہ

أَعَسَرَ - سخت اور منحوس دن۔

الرَّعِيبُ - مؤنث الرَّعِيبُ - تنگی، دشواری۔

الرَّعِيبُ - قرضدار پر تنگی کرنے والا۔





المَعْسُورُ - تنگ حال۔

عَسْعَسَ - الذَّيْلُ - رات گزارنا۔ رات کا

تاریک ہونا۔ السَّحَابُ - بادل کا زمین

سے قریب ہونا۔ الامرُ - مشتبہ کردینا۔

معمر بنادینا۔ الشَّيْءُ - حرکت دینا۔

تَعَسَّسَ - الذَّنْبُ - بھیڑیے کا رات

میں نکلنا۔ تَعَسَّسَ الشَّيْءُ - سونگھا۔

العَسْعَسُ - وہ بھیڑیا جو رات میں شکار کا

متلاشی ہو۔

العَسْعَاسُ - رات میں شکار ڈھونڈنے والا

بھیڑیا۔ سَرَاب، ہلکی چیز۔

عَسَفَ (رض) عَسْفًا - السُّلْطَانُ - ظلم

کرنا۔ عَظَمَ کرنا۔ خدمت لی۔ الدَّمْعُ

الجُفُونُ - آنسو بکرت ہونا۔ الشَّيْءُ -

ذہرستی لے لینا۔ فی الامرِ بغير سوچے

سمجھ کرنا۔ لِفْلَانٍ کسی کے لیے کام کرنا

- الطريق وَعِن الطريق - راستے

سے ہٹ جانا۔ المَفَارِظَةُ - جنگل کو

بغير مقرر شدہ راستے کے طے کرنا۔ کتے

ہیں۔ بَاتَ يَعِيسُفُ الذَّيْلُ و

بِالذَّيْلِ - رات میں بے راہ چلنا۔

أَعَسَفَ - رات میں بے راہ چلنا۔ غلام سے سخت

کام لینا۔

عَسَفَ - بغير علامت و نشان کے چلنا۔

البعير - ٹھکا دینا۔

تَعَسَفَ - فِي القَوْلِ - بے راہ روی کرنا۔

ایسے معنی لیے جس پر دلالت واضح نہ ہو۔

- عَنِ الطريق - ہٹ جانا۔ الامرُ

بے سوچے سمجھے اختیار کرنا۔ فُلَانًا -

ظلم کرنا۔ خدمت لینا۔

أَعَسَفَ - عَنِ الطريق - راستے سے

ہٹنا۔ الطريق - بے جانے راہ چلنا۔

الامرُ - بے سمجھ بوجھ اختیار کرنا۔

فُلَانًا - ظلم کرنا۔ خدمت لینا۔

لِأَعَسَفَ - الشَّيْءُ - مڑنا۔

العَسْفُ - ظلم، موت۔

العَاسِفُ - فَا - مِنَ الابلِ - عَسَافُ کی

بیماری والا اونٹ۔ کتے ہیں۔ نَاقَةُ

عَاسِفٌ - جہ - عَوَاسِيفٌ -

العَسَافُ - اونٹوں کی ایک بیماری جس میں

سانس زیادہ آتا ہے۔

العَسُوفُ وَالْعَسَافُ وَالْمُعَسَفُ بہت

ظالم۔

العِيسِيفُ - مزدور۔ جہ - عُسْفَاءُ عِسْفَةً۔

العِيسِيفُ بے جانے راہ چلنے والا۔ کتے

ہیں۔ أَخَذُوا فِي مَعَايِيسِيفِ الْبَيْدِ

وَمَعَايِيسَهَا - جنگل کے نامعلوم راستوں

میں چلنے لگے۔

عَسِقَ دَسَ عَسْقًا وَلَعَسَقَ بِهِ - چٹلنا۔

علیہ - طلب میں اصرار کرنا۔

العَسَقُ - تنگ غوثی، اول شب کی تاریکی۔

العِيسِيفَةُ - خراب شراب۔

عَسَقَلَ السَّرَابُ - سراب کا چمکنا۔

عَسْقَلَانُ - شام کے ساحل کا ایک شہر۔

الرَّأْسُ - اوپر کا حصہ۔

العَسْقَلُ - سانپ کی چتری۔ جہ - عَسَاقِلُ۔

العَسَاقِلُ وَالْعَسَاقِيلُ - سراب، متفرق

بادل۔ صاحب صحاح لکھتا ہے کہ ان کا

واحد نہیں سنا۔

عَسِكَ دَسَ عَسْكًَا - بہ - لازم ہونا۔ چٹلنا۔

عَسَكَرَ - القَوْمُ - جمع ہونا۔ الذَّيْلُ -

تاریکی کا بڑھنا۔ الشَّيْءُ - جمع کرنا۔ جمع

کردہ چیز کو مَعَسَكَرَ کہتے ہیں۔

العَسَاكِرُ - جمع لشکر۔ جہ - عَسَاكِرُ ہر

چیز کا بہت سا حصہ کہتے ہیں لَاحِجَتُ

عَنْدِ عَسَاكِرِ الْهَيْدِ - غم کی کثرت

دور ہوگئی۔

العَسَاكِرَةُ - سختی، خشک سالی۔

عَسَلَ دَسَ عَسْلًا وَعَسَلَ الطَّعَامُ -

کھانے میں شہد ملانا۔ عَسَلَ وَعَسَلَ

القَوْمُ - شہد کھانا۔ شہد کا نوشہ دینا۔

عَسَلَتِ النَّحْلُ - بکھیوں نے شہد

بنایا۔ عَسَلَ الشَّيْءُ - شہد جیسی ہونا۔

عَسَلَ النَّارُ - اوگھنا۔

عَسَلَ (ض) عَسْلًا وَعَسُولًا - و

عَسْلَانًا - الدَّمْعُ - خوب حرکت کرنا

- المَرْأَةُ - جماع کرنا۔

عَسَلَ دَسَ عَسْلًا وَعَسْلَانًا - المَاءُ

ہوکی وجہ سے لہرانا۔

اِسْتَعَسَلَ - شہد طلب کرنا۔ اِسْتَعَسَلَتِ

النَّحْلُ - بکھیوں کا شہد بنانا۔ کتے ہیں

”عَسْلًا لَهُ“ - بمعنی تَعَسَّلَ لَهُ - اس

کے لیے ہلاکت ہو۔

العَسْلُ - شہد مذکر و مؤنث، جہ - اَعْسَالُ

وَعُسْلٌ وَعُسْلٌ وَعُسُولٌ و

عُسْلَانٌ - بھڑے کو عَسْلَةً کہتے

ہیں۔ العَسْلُ بشیرہ کھجور کہتے ہیں۔

”مَا لِفْلَانٍ مَضْرِبُ عَسْلَةٍ“ - فلاں

بے نسب ہے۔ ”مَا تَرَكَ كُهُ مَضْرُوبُ

عَسْلَةٍ“ - گالی دی جیٹی کہ اس کے

نسب کو کا عدم کر دیا۔

أَبُو عَسْلَةٍ - بھیڑیا۔

العَسْلِيُّ - بزرگ شہد۔

العَاسِلُ - فَا - (دَسَ وَالْعُسُولُ) نیکو کار۔

جس کی ثناء و صفت خوب معلوم ہو۔ جہ

عُسْلٌ۔

العَاسِلُ - شہد نکالنے والا۔ جہ - عَسْلٌ و

عَوَاسِلُ - بھیڑیا۔ دَمْعٌ عَاسِلٌ -

عَسَالٌ وَعُسُولٌ - رمی کی وجہ سے

حرکت کرنے والا۔

العَسَالُ - بمعنی العَاسِلُ -

خَلِيَّةٌ عَاسِلَةٌ - شہد والا چھتہ۔

العَسَالَةُ - شہد کی مکھی۔ شہد نکالنے والے۔

العِيسِيلُ - عطر فروش کی جھاڑو جس سے وہ

عطر جمع کرتا ہے، اونٹ اور بٹھتی کا

عضو تناسل۔ جر۔ عُسْلٌ۔
 الْمَعْسَلَةُ وَالْمَعْسَلَةُ۔ شد کا چھتہ۔
 الْمَعْسُولُ۔ مفع۔ رَجُلٌ مَعْسُولٌ۔
 شیریں زبان۔ خوش آواز۔ مَعْسُولٌ
 المَوَاعِيدُ۔ سچے وعدوں والا۔
 عَسَلَجٌ۔ الشَّجَرُ۔ درخت پر نرم ٹہنیاں
 نکلتا۔
 الصُّلُوحُ۔ نرم ٹہنیاں۔ جر۔ عَسَالِيْهُمْ۔
 عَسَلَطٌ۔ غیر مربوط کلام کرنا۔ كَلَامٌ
 مُعَسَلَطٌ۔ غیر مربوط بات چیت۔
 الْعَسَلِيُّ۔ سراب، بھڑیا، شیر نر، شتر مرغ۔
 شکاری، درندہ، بدعات، چست و
 چالاک، دراز گردن۔ لومڑی۔ جر۔
 عَسَالِقُ۔
 عَسَمَ رَضٍ، عَسَمًا وَعُسُومًا۔ فی الامر۔
 لاپ کرنا۔ کوشش کرنا۔ عَسِمَتْ عَيْنُهُ
 آنکھ کا بہہ پڑنا۔ آنکھ بند ہونا۔ بقول
 بعض پلک چپک جانا۔
 عَسِمَ رَسٍ، عَسَمًا۔ الْقَدَامُ أَوِ الْكَفُّ۔
 خشک ہو کر ٹیڑھا ہو جانا۔ صفت مذکر
 اَعَسَمَ۔ صفت مؤنث عَسَمَاءُ۔
 اَعَسَمَ۔ يَدُكَ خَشَكٌ كَرَدِينَا۔ اَعَسَمَتْ
 عَيْنُهُ۔ آنکھ کا بہنا۔ بقول بعض
 بند ہونا۔
 اَعَسَسَمَ۔ کماٹی کرنا۔ فَلَانًا كَيْسًا كَوَاسٍ كِي
 طمع کی چیز دینا۔
 الْعُسُومُ۔ بال بچوں کو تکلیف پہنچانے والا۔
 جر۔ عُسْمٌ۔
 الْعَاسِمُ۔ بمعنی عُسُومٌ
 الْعَسَمَةُ وَالْعُسُومُ۔ خشک روٹی کے
 ٹکڑے۔ الْعُسُومُ۔ قَلت۔
 الْمَعْسَمُ۔ جائے طمع۔ کہتے ہیں کہ مَا لَكَ
 بَنِي فَلَانٍ مَعْسَمٌ؟
 عَسِينِ رَسٍ، عَسَنًا۔ الْكَلَاءُ فِي
 الدَّائِلَةِ۔ گھاس بھجنا اور جانور کا

موٹا ہو جانا۔ عَسَنَتِ الدَّائِلَةُ۔ چارہ
 بھجنا اور جانور موٹا ہونا۔
 تَعَسَنَ۔ الشَّيْءُ۔ پتہ نشان تلاش کرنا۔
 أَبَاكَ۔ مشابہ ہونا۔ اَعَسَنَ
 المكان۔ کچھ سبزی اگنا۔
 الْعَسْنُ۔ چربی۔ بالوں کی لمبائی اور خوبصورتی
 مع سپیدی۔
 الْعِسْنُ۔ شیل و نظیر۔ ر۔ وَالْعُسْنُ،
 چربی۔ الْعُسُونُ وَالْاَعْسَنُ۔ موٹا
 جر۔ عُسْنٌ۔
 اَعَسَانُ۔ الشَّيْءُ۔ نشان۔ کہتے ہیں۔ هُوَ
 عَلَى اَعَسَانٍ مِنْ اَبْيَسٍ۔ و دھاب
 کے مشابہ ہے۔
 الْعَسْتِجُ۔ مذکر، شتر مرغ۔
 عَسَا يَعْسُو عَسَاءً وَعُسُوًا۔ الْنَبَاتُ
 نبات کا موٹا اور سخت ہونا۔ عَسَنَتْ
 يَدُكَ۔ کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ سخت
 ہونا۔ اللَّيْلُ۔ رات کی تاریکی زیادہ
 ہونا۔ عَسَا يَعْسُو عُسُوًا، عُسُوًا
 عُسِيًّا، عَسَاءً وَعُسُوَةً۔ الشَّيْءُ
 بوڑھا ہونا۔
 الْعُسُوُ۔ م۔ موم۔
 الْعَاسِيُ۔ فَا۔ سخت مزاج۔
 الْعُسُوَةُ۔ بڑھا پا۔
 عَسِيَّ يَعْسِي عَسِيًّا۔ الْنَبَاتُ۔ نباتات
 کا سخت ہونا۔
 عَسِيَّ۔ افعال مقاربہ سے ہے۔ جامد ہے
 محبوب چیزیں امید کے لیے اور کروہ بات
 میں خوف کے لیے آتا ہے۔
 الْعَيْسِيُّ، الْعَيْسِيُّ وَالْمَسْعَاةُ۔ بِالْاَمْرِ
 لائق، مناسب۔
 اَعَسَ بِهِ۔ فعل تعجب ہے معنی اَخْلَقَ بِهِ
 کس قدر لائق ہے۔
 الْعَاسِيُ۔ فَا۔ درخت خرما۔ بقول ابی عبید
 درخت خرما کا گچھا۔

الْمَعْسَاءُ۔ قریب بلوغ لڑکی۔
 عَشَّ دَن، عَشْوَشَةٌ وَعَشَّاشَةٌ وَعَشَّاشٌ
 - الْبَدَنُ۔ لاغر ہونا۔ صفت عَشَّ
 عَشَّشَ - الطَّيْرُ۔ پرند کا گھونسلہ بنانا۔
 عَشَّشَتِ النِّخْلَةُ۔ کھجور کی شاخوں
 کا کم ہونا۔ عَشَّشَ الْكَلَاءُ۔ گھاس
 خشک ہونا۔ عَشَّشَ الْخُبْزُ۔ روٹی میں
 پھپھوندی لگنا اور خشک ہو جانا۔
 اَعَشَّ - فَلَانًا عَيْنَ الْاَمْرِ۔ روکنا، باز
 رکھنا۔ الطَّيْرُ۔ ہرن کو بھٹ میں بھڑکایا
 - الْبَدَنُ۔ بدن کو لاغر کرنا۔ الرَّجُلُ
 کم درختوں والی زمین میں پہنچنا۔
 اَعَشَّشَ۔ گھونسلہ بنانا۔ الْبَدَنُ۔ جسم کو
 لاغر کرنا۔
 اَعَشَّشَ - الثَّوْبُ۔ کپڑے کا پیوند والا ہونا۔
 الْعَشَّشُ۔ م۔ بھڑکی عطا۔ رَجُلٌ عَشَّشٌ۔
 لاغر بدن والا۔
 الْعَشَّ وَالْعَشَّشُ۔ گھونسلہ۔ جر۔ عَشَّاشٌ وَ
 عَشَّاشَةٌ وَأَعَشَّاشٌ وَعَشْوَشٌ۔
 الْعَشَّةُ۔ کھجور کا درخت کم شاخوں والا۔
 خراب جگہ میں اگا ہوا درخت۔ کم درختوں
 والی زمین۔
 الْمَعَشَّشُ۔ مطلب۔
 الْمَعَشَّشُ۔ مفع۔ وہ جگہ جہاں پرندہ
 گھونسلہ بنائے۔
 عَشِبَ رَسٍ، عَشَبًا۔ خَشَكٌ ہونا۔
 عَشِبَ رَسٍ، عَشَبًا وَعَشَبَ رَكٍ، عَشَابَةٌ
 - الْمَكَانُ۔ سبز گھاس والا ہونا۔ صفت
 عَاشِبٌ۔
 عَشِبَ رَكٍ، عَشَابَةٌ وَعُشُوبَةٌ۔
 الرَّجُلُ۔ پست قد۔ بد صورت ہونا۔
 صفت عَاشِبٌ۔
 عَشِبَ رَكٍ، عَشَابَةٌ وَعُشُوبَةٌ۔
 الرَّجُلُ۔ پست قد۔ بد صورت ہونا۔
 صفت مذکر عَشِبَ۔ صفت مؤنث عَشِبَةٌ۔





اَعْشَبَ - القوم - سبزگھاس پر پہنچنا۔
 کہتے ہیں: اَعْشَبَتْ فَاَنْزَلَتْ ہرے
 بھرے مقام پر پہنچ گئے تو اتر پڑے۔
 اَعْشَبَ وَعَشَبَ - المكان - سبزگھاس
 اگانا۔
 اَعْشَبَ وَعَشَبَ - سبزگھاس چرنا۔
 موٹا ہونا۔
 اَعْشَوَشَبَ - سبزگھاس پر پہنچنا۔ المكان
 بہت سبزگھاس والا ہونا۔
 العُشْبُ - سبزگھاس۔ ج۔ اَعْشَابُ
 واحد عَشْبَةٌ۔
 العُشْبَةُ - بڑھاپے کی وجہ سے ٹیڑھی کمر
 والا مرد یا عورت۔
 العُشَابَةُ - سبزگھاس کی کثرت۔
 العُشْبُ وَالْعُشْبُ وَالْمُعْشَبُ و
 الْمُعْشَابُ - سبزگھاس والی جگہ۔
 اَرْضٌ عَاشِبَةٌ وَعُشْبَةٌ وَعُشْبِيَّةٌ۔
 مُعْشَبَةٌ وَمُعْشَابٌ - بہت سبزگھاس
 والی سرزمین۔
 التَّعَاشِيبُ - سبزگھاس کے متفرق قطعات۔
 الْعُقَابُ - سبزگھاس والا۔ سبزی والا۔
 عَشْرُ دَمْنٍ عَشْرًا - دس میں سے ایک
 لینا۔ تو پر ایک زائد۔ القوم۔ قوم
 میں دسواں ہونا۔ النَاقَةُ - اونٹنی
 دس ماہ کی حاملہ ہوئی۔
 عَشْرُونَ عَشْرًا وَعُشُورًا وَعَشْرَ -
 اَلْمَالِ - دسواں حصہ لینا۔ القوم۔
 قوم کے مال کا دسواں حصہ لینا۔ دسواں
 ہونا۔ عَشْرُ الْجِمَارِ - گدھے کا دس
 بار نیگنا۔ عَشْرَتِ النَاقَةِ - اونٹنی
 کا دس ماہ کی حاملہ ہونا۔
 اَعْشَرَ - الْعَدَدُ - دس کر دینا۔ القوم۔
 دس ہونا۔ اَعْشَرَتِ النَاقَةُ - اونٹنی
 دس ماہ کی حاملہ ہونا۔
 عَاشِرُهُ مُعَاشِرَةً - بل جُل کر رہنا۔

اَعْشَرَ وَتَعَاشَرَ - القوم - ایک دوسرے
 کے ساتھ رہنا۔
 العِشْرُ - دسواں حصہ۔ اونٹ کا دسویں دن
 یا نویں دن گھاٹ پر جانا۔ ج۔
 اَعْشَارُ۔
 العِشْرُ - دسواں حصہ۔ ج۔ عِشُورٌ و
 اَعْشَارُ - الْأَعْشَارُ - پرندے کے اگلے
 بڑے پردے۔
 العِشْرُ - ہر ماہ کی دسویں گیارہویں اور
 بارہویں رات۔
 العِشْرَةُ - دس۔ یہ مذکر کے لیے ہے کہتے
 ہیں: عِشْرَةُ رِجَالٍ اور مؤنث
 کے لیے عِشْرُ نِسَاءٍ، جب اس کو
 دوسرے عدد کے ساتھ ملایا جاتا ہے
 تو گیارہ اور بارہ میں موافق قیاس مذکر
 کے لیے دونوں جزو مذکر لاتے ہیں جیسے
 أَحَدٌ عَشَرَ رَجُلًا اور مؤنث کے
 لیے دونوں جزو مؤنث لاتے ہیں جیسے
 اِخْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً۔ اس کے
 بعد انیس تک مذکر کی صورت میں پہلا
 جزو مؤنث اور دوسرا جزو مذکر لاتے
 ہیں جیسے خَمْسَةُ عَشَرَ رَجُلًا اور
 مؤنث کی حالت میں پہلا جزو مذکر اور
 دوسرا جزو مؤنث لاتے ہیں۔ جیسے
 خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً۔ ج۔ عَشْرَاتُ
 الْعِشْرُونَ۔ بیس۔ (مذکر و مؤنث)
 الْعِشْرَةُ - صحبت، مخالفت۔
 الْعَاشِرُ - فَا۔ دسواں۔ دسویں دن گھاٹ
 پر جانے والا۔ ج۔ عِشْرُ۔ مؤنث
 عَاشِرَةً۔ ج۔ عَاشِرُ۔ الْعَوَاشِرُ
 پرندے کے اگلے بڑے پردے۔ الْعِشُورِيُّ،
 الْعَاشُورُ، الْعَاشُورَاءُ۔ و
 الْعَاشُورِيُّ، محرم کی دسویں تاریخ۔
 الْعِشَارُ - دسواں حصہ لینے والا۔
 الْعُشْرَاءُ - مِنَ النُّوقِ - آٹھ یا دس ماہ

کی حاملہ۔ ج۔ عِشَارُ۔ عَشْرَوَاتُ
 وہ اونٹنی جو بیچہ جن چکی ہو۔
 الْعُشْرَاءُ وَالْعُوشِيَاءُ - گلی ڈنڈا۔ کہتے
 ہیں: جَاءُوا عِشَارًا وَمَعَشَرًا۔ دس
 دس آئے دیہ دونوں کلمے وصفیت اور
 عدل کی بنا پر غیر منفرت ہیں۔
 ثَوْبٌ عِشَارِيٌّ۔ دس گر لبا۔ خُلَامٌ
 عِشَارِيٌّ۔ دس سال کا۔ مؤنث۔
 عِشَارِيَّةٌ۔
 عِشَارَتُهُ - دسواں حصہ۔
 الْأَعْشَارِيُّ - اعشار۔ ج۔ عِشْرُ کی
 طرف منسوب۔
 الْعِشِيرُ - قبیلہ، قریب، دوست۔ زوج،
 زوجہ۔ ج۔ عِشْرَاءُ۔
 الْعِشِيرُ - دسواں حصہ۔ ج۔ اَعْشِرَاءُ۔
 الْعِشِيرَةُ - خاندان۔ عِشِيرَةُ التَّحْلِ -
 برادران۔ باپ کی جانب سے قریبی لوگ۔
 ج۔ عِشَارِيٌّ وَعِشِيرَاتُ
 الْأَعْشَرُ۔ بے وقوف۔
 الْمُعْشَرُ - جماعت، آدمی کے اہل، جن، انسان
 ج۔ مَعَاشِرُ۔
 الْيَعْشَارُ - دسواں حصہ۔ نَاقَةُ مُعْشَارٍ۔
 بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔
 الْعَشَارِبُ وَالْعَشْرَبُ - بشیر۔ رَجُلٌ
 عَشَارِبٌ۔ دلیر مرد۔
 عَشْرُ دَمْنٍ عَشْرًا۔ کٹی ہوئی ٹانگ والے
 کی طرح چلنا۔ عَلَى عَصَاہُ۔ لالچی پر
 ٹیک لگانا۔
 الْعُشُورُ - دشوار راستہ یا زمین۔ ج۔
 عِشَارُوزُ وَالْعُشُورُ - مضبوط۔ قوی،
 موٹا۔
 عِشْقُهُ عِشْتُ وَعِشْقًا وَمَعْشَقًا۔ بہت
 محبت کرنا۔ محبت میں حد سے بڑھ جانا۔
 صفت مذکر عاشق۔ ج۔ عِشْقٌ۔
 عَاشِقُونَ - صفت مؤنث عاشقہ۔

وَعَاشِقٌ جَمْعُ عَوَاشِقٍ، عَشِيقٌ -
بالشئِ جَمْعٌ -
تَعَشَّقُ - يَتَكَلَّفُ عَاشِقٌ بِنَا - ه - بہت
محبت کرنا -
العَشِيقُ محبت کی زیادتی، پارسائی اور غیر
پارسائی دونوں طرح ہوتا ہے -
العَشَقَةُ عَشَقٌ پِچاں - پیلو - ج -
عَشَقٌ -
العَشِيقُ عَاشِقٌ مَعشوق - العَشِيقُ و
العَشِيقُ پھولوں کے پودوں کی دیکھ
بھال کرنے والا - ج - عَشِيقٌ -
العَاشِقُ والعَشِيقُ بہت زیادہ
عشق والا -
عَشِمَ دَسَ عَشِمًا وَعُشِمًا وَتَعَشَّمَ
- الشئِ خَشک ہونا -
العَشِمُ لالچ - خُبِرَ عَشِمٌ سُوکھی یا
خراب روئی -
العَشْمَةُ لالچ، خَشک روئی، لاغری کی وجہ
سے خَشک - پیرفروت (مذکر مؤنث)
کہتے ہیں "شَيْخٌ عَشْمَةٌ" وَعَجُوزٌ
عَشْمَةٌ -
لُحْبِزٌ عَشِمٌ خَشک یا خراب شدہ روئی -
الْأَعَشِمُ دو مخلوط رنگ، خَشک درخت
عمر رسیدہ بوڑھا - مؤنث عَشِمَاءُ -
عَشَنَ دَنَ عَشَنًا، أَعَشَنَ وَعَشَنَ وَ
إِعَشَنَ، اُكَلَّ سَے بات کہنا، تَخْنِیہ
کرنا - اِعَشَنَ فَلَانًا نَاقِیَ حَمَلِ کرنا -
العُشَانُ والعُشَانَةُ گری ہوئی خراب
کھجوریں - العُشَانَةُ کھجور کی شاخ
کی جڑ -
عَشًا يَعْشَوُ عَشَوًا رَتَوْدَے والے کی
طرح کام کرنا - الابل - اوٹوں کو رات
میں چرانا - الرجل - رات میں کسی کا
قصد کرنا - ه والیہ - قصد کرنا اور
بخشش طلب کرنا - عَنهُ اعراض کرنا

اور دوسرے کی طرف مائل ہونا - عَشَوًا
وَعَشَوًا التَّارِدُ إِلَى النَّارِ - آگ
دیکھ کر مہمانی کی امید میں اس کی
طرف چلنا - عَشَوًا وَعَشِي
يَعَشِي عَشًا نگاہ کا کمزور ہونا - رَتَوْدَا
ہونا - صفت عَشٍ وَأَعَشِي - عَشِي
العَفَاءُ رات کا کھانا کھانا، صفت
عَشِيَّانٍ - عَشِي عَلَيْهِ - ظلم کرنا -
عَشِيَّتِ الْإِبِلُ رات میں اونٹ کا
چرنا - صفت عَانِيَّةٌ - ج - عَوَاشٍ -
عَشِي تَعْنِيَّةٌ الرجل - شام کا کھانا
کھانا - الطَّيْرُ - آگ روشن کر کے
اندھا بنا کر تشکار کرنا - عَنَ الشئِ -
نرمی برتنا - مہربانی کرنا - الْإِبِلُ اونٹ
کورات میں چرانا -
أَعَشِي أَعَشَاءَ الرجل - دیا - رات
کا کھانا کھانا - الْإِبِلُ رَتَوْدَا
میں مبتلا کرنا -
تَعَشِي رات کا کھانا کھایا -
تَعَاشِي رَتَوْدَا والاظاہر کرنا - عَنهُ
جابل بننا -
أَعَشِي أَعَفَاءَ عَشَا کے وقت چلنا -
النَّارَ رات میں دیکھنا اور قصد کرنا -
أَسْتَعَشِي أَسْتَعَشَاءَ نَارًا آگ
کی روشنی میں راہ پانا - الرجل -
متحیر پانا -
العَشَاءُ شام کا کھانا - ج - أَعَشِيَّةٌ -
العَشَا والعَشَادَةُ نگاہ کی کمزوری -
رَتَوْدِي -
العَشِي رات کا کھانا -
العَشَاءُ والعَشِي رات کی ابتدائی تاریکی
بقول بعض مغرب سے عَشَا تک کی
اندھیری یاد دہانی کا آخری حصہ -
العَشَاءُ اِرْنَ مغرب اور عَشَا - بَعِيرٌ عَشِيٌّ
رات کو دیر تک چلنے والا -

العَشِيَّةُ شام - ج - عَشِيٌّ وَعَشَا و
عَشِيَّاتٌ نسبت کے لیے عَشَوِيٌّ -
العَشِيَّةُ بادل -
العَشْوَةُ تاریکی - رات کے ربع اول کی
اندھیری -
العَشْوَةُ والعَشْوَةُ آگ کا شعلہ جورات کے
وقت دور سے دکھائی دے -
العَشْوَةُ والعَشْوَةُ والعَشْوَةُ مشتبہ
بات کرنا کہتے ہیں "أَوْطَاهُ عَشْوَةٌ"
امر مشتبہ میں پھنسا دیا - یہ اس وقت
ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایسی خبر دے کہ
جس کی وجہ سے انسان حیرت و
مصیبت میں پڑ جائے -
العَشْوَاءُ مؤنث أَعَشِي - اوٹنی جس کو
سامنے کچھ نظر نہ آئے - کہتے ہیں "هُوَ
يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ" وہ بغیر
سوچے سمجھے کام کرتا ہے "هُوَ أَخْبَطُ
مِنْ عَشْوَاءَ أَعْلَهُمْ لَفِي عَشْوَاءَ
مِنْ أَمْرِ هُمْ" حیران اور ناواقف
ہیں "لَكِبَ الْعَشْوَاءُ" بغیر سوچے سمجھے
کام کیا - الْعَشْوَاءُ اندھیری کھجور،
درخت خرما -
عَصَّ دَسَ عَصًا وَعَصَصًا سخت ہونا -
عَصَصَ - عَلَى عَرَجِيَّةٍ قَرْنَدَارَے
اصرار کرنا -
العَصَّ مَم - جڑ - کہتے ہیں "هُوَ
كِرِيمُ الْعَصَّ"
العَصَصُ والعَصَصُ دُم کی بڑی -
عَصَبٌ دَنَ عَصَبًا الشئِ - لپیٹنا -
مُوْطْنَا - بِنَا - بَانْدَهَا - الْقَطَنَ - روئی
کاتنا - الرِّبْقُ بِالْفِعْلِ بھڑک کا منہ
پر خَشک ہوجانا - النَّاقَةُ - اوٹنی کی
رائیں دوہنے کے لیے باندھنا - الرجل
بَيْتَهُ اقامت کرنا - الْعُبَارُ رَاسَهُ
سر پر غبار لگ جانا - الْقَوْمُ يَهْ -



اجتماع کرنا۔ احاطہ کرنا۔ عَصَبًا و
عُصْبًا، الْأَسْنَانُ۔ دانتوں کا میل
ہونا۔ الْأَفْقُ۔ کنارہ آسمان سُرخ
ہونا۔ عَصْبًا وَعَصَابًا، الشَّيْءُ
قبضہ کرنا۔
عَصَب دس عَصِيَا۔ اللَّحْمُ۔ گوشت
کا زیادہ پھٹوں والا ہونا۔ صفت
عَصَب۔ القَوْمُ بہ۔ اجتماع کرنا۔
احاطہ کرنا۔
عَصْبَةُ۔ بھوکا رکھنا۔ ہلاک کرنا بیٹی باندھنا۔
عَصَبٌ فَلَانًا۔ سردار بنانا۔
أَعَصَبَتِ الْإِبِلُ۔ اونٹوں کا تیز چلنا۔
تَعَصَّبَ بِطِيٍّ بَانْدھنا۔ تعصب سے کام
لینا۔ سردار ہونا۔ لُكْهُ وَمَعْلَهُ۔ مائل
ہونا۔ مدد کرنا۔ کوشش کرنا۔ علیہ
مقابلہ کرنا اور عصبیت دکھلانا۔ رَفِيٌّ
وَدِينُهُ وَمَدُّ هَيْبَةٍ۔ دین و مذہب
میں غیور ہونا اور سخت حفاظت کرنا۔
بِالشَّيْءِ۔ راضی ہونا۔
أَعْتَصَبَ۔ القَوْمُ۔ قوم میں گروہ بندی
ہونا۔ الْمَلِكُ، بادشاہ کا تاج پہننا
۔ التَّاجُ عَلَيَّ رَاسِيہ۔ تاج سر پر
ٹھیک بیٹھنا۔ بِالشَّيْءِ۔ تناعت کرنا
اور راضی ہونا۔
أَلْعَصَبُ الشَّيْءِ۔ سخت ہونا۔
أَعَصُوبُ۔ الشَّيْءُ۔ سخت ہونا۔ القَوْمُ
مجموع ہونا اور گروہ درگروہ ہونا۔
العَصَبُ۔ عمامہ، پگڑی، ایک قسم کی چادر
۔ وَالْعَصْبُ، عشق پیچاں۔ ج
أَعَصَابٌ۔
العَصْبَةُ۔ عصب کا واحد۔ باپ کی جانب
سے رشتہ دار۔ ج۔ عَصَبَاتٌ۔
العَصْبَةُ۔ پٹی باندھنے کی ہیئت۔
العَصْبَةُ۔ مِنَ الرِّجَالِ وَالْحَيْلِ وَ
الْقَبِيلِ۔ گروہ۔ ج۔ عَصْبٌ۔

العَصَابُ۔ جس سے باندھا جائے۔
العَصَابَةُ۔ انسانوں، گھوڑوں اور پرندوں
کی جماعت۔ پگڑی، عمامہ۔ پٹی۔ ج۔
عَصَائِبُ۔
الْعَاصِبُ۔ فَا۔ رَجُلٌ عَاصِبٌ۔ وہ شخص
جس کے منہ پر تھوک خشک ہو جائے۔
العَصِيبُ۔ بھیڑ۔ آنتوں کے ساتھ بندھا
ہوا اور بھٹا ہوا۔ ج۔ عَصْبٌ،
أَعُوبَةُ۔ يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ سخت گرم۔
التَّعَصُّبُ۔ معصوم۔ دلیل ظاہر ہو جانے کے
بعد بھی حق بات کو نہ ماننا۔ ج۔
تَعَصُّبَاتٌ۔
العَصِيَّةُ۔ تعصب کی وجہ سے ظلم میں قوم
کی مدد کرنے والا۔
العَصِيَّةُ۔ دھڑے بندی۔
المُعَصَّبُ۔ مفع۔ سردار۔ تاج پہننے والا۔
فقیر، بھوکا۔
المُعَصُوبُ۔ مفع۔ باریک تنوار۔ کتنے میں
رَجُلٌ مُعَصُوبٌ الْحَقُّ۔ مضبوط
بناوٹ والا۔ پُر گوشت۔
العَصْبُصَبُ۔ سخت گرم دن یا مطلق
سخت۔
عَصَدَ رَضٍ، عَصَدَ أَوْ أَعَصَدَ۔ الشَّيْءُ
موڑنا۔ گرہ دی۔ کہتے ہیں: عَصَدَةُ
عَلَى الْأَمْرِ۔ کام پر مجبور کرنا۔ ر۔
عَصُودًا، الرَّجُلُ
العَصِيدُ۔ گرہ لگایا ہوا۔ موڑا ہوا۔
العَصِيدَةُ۔ ایک قسم کا کھانا جو گھی اور آٹا
ملا کر پکاتے ہیں۔
عَصَرَ رَضٍ، عَصَرَ۔ الْعَيْنُ وَالْثَوْبُ
انگور یا کپڑے کو پھڑپھڑانا۔ الدَّمَلُ
پھوٹے کو پھڑپھڑ کر پیپ نکالنا۔
الرَّكْعَةُ الْقَوَسُ۔ پسینہ لانا۔ الشَّيْءُ
عَنْهُ رُكْنَا۔ فُلَانًا۔ قید کرنا،
عطیہ دینا۔

عَصَرَ۔ الشَّيْءُ۔ بار بار پھڑپھڑانا۔ النُّزْعُ
کھیتی کا خوشے نکالنا۔ عَصَرَتِ
الْمَرْأَةُ عَمَلًا بَالِغًا ہونا۔ جفن آنا۔
أَعَصَرَ۔ وقت عصر میں داخل ہونا۔ أَعَصَرَتِ
الْمَرْأَةُ عَمَلًا بَالِغًا ہونا۔ حائفہ ہونا۔
صفت مُعَصِّرٌ۔ ج۔ مَعَاصِرُ۔ و
مَعَاصِيرُ۔ الرِّيحُ۔ ہوا کا اپنے ساتھ
بگولہ لانا۔
أَعَصَرَ الْقَوْمُ۔ بارش برسایا جانا۔
عَاصِرَةٌ مُعَاصِرَةٌ۔ ہم عصر ہونا۔
تَعَصَّرَ۔ پھڑپھڑانا۔ بہ۔ پناہ لینا۔
أَعْتَصَرَ الْجَنَّبُ وَالْثَوْبُ دُخُوهُمَا۔
انگور یا کپڑے وغیرہ کو پھڑپھڑانا۔ العَصِيرُ۔
شراب بنانا۔ الْعَطِيَّةُ۔ عطیہ واپس
لینا۔ مِنْ فُلَانٍ مَا لَا تَدَانُ يَا كَسِي
دوسرے طریقے پر مال لینا۔ مَنِ
الشَّيْءِ۔ لِيَا۔ يَفْلَانٍ۔ پناہ لینا۔
عليہ۔ بخل کرنا۔ کہتے ہیں: أَعْتَصَرَ
بِالْمَاءِ مَا عَصَّ بِهِ مِنَ الطَّلَعِ
کھانے کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے
تھوڑا پانی پینا۔
أَعَصَرَ۔ پھڑپھڑانا۔ الْعَيْنُ وَنَحْوَهُ۔ شِرْہ
نکل جانا۔
الْعَاصِرُ۔ فَا۔ ج۔ عَصَرَةٌ وَعَاصِرُونَ۔
مؤنث عَاصِرَةٌ۔ ج۔ عَوَاصِرُ وَ
عَاصِرَاتٌ۔ رَجُلٌ عَاصِرٌ۔ بے
برکت، بخیل۔
العَصْرُ۔ رات دن۔ دن کا آخری حصہ۔
آفتاب کے سرخ ہونے تک۔ صبح،
قبیلہ، گروہ، عطیہ۔ ج۔ أَعَصُرُ وَ
عَصُورٌ۔ الْعَصْرَانِ۔ صبح و شام، دن و
رات، کہتے ہیں: جَاءَنِي عَصْرًا۔ وہ
دیر میں آیا۔
العَصْرُ وَالْعَصْرُ وَالْعَصْرُ۔ زمانہ۔ ج
عَصُورٌ وَأَعَصُرُ وَعَصُورٌ وَأَعَصَارٌ۔ اور

أَعَصَارُ كِي جَعَّ أَعَايِرُ -
العَصْرُ وَالْعَصْرُ وَالْعَصْرَةُ وَالْمَحْصَرَةُ -
پناہ گاہ۔

العَصْرُ عَصْرٌ مِّنْ لَّغَتٍ هِيَ بِمَعْنَى زَمَانٍ -
نوشہ کی بھرک۔

العَصْرَةُ نَوْشُوكِ بَهْرُكٍ، عَايِرُ كِي جَعَّ -
غبار، بگولہ۔

الْعَصِيرُ وَالْعَصِيرَةُ وَالْعَصَارُ - رَسٌ،
بُخُولٌ - الْعَصِيرُ - بُخُولٌ بَرٌّ -

الْعَصَارُ - بَخْتِ غَبَارٍ - وَقْتُ -
الْعَصَارَةُ - رَسٌ، بُخُولٌ، بَهْرُكٌ، کہتے ہیں۔

رَجُلٌ كَرِيهُمُ الْعَصَارَةُ - سَوَالُ كِي
وَقْتُ كَرِيهِمُ سَمِي -

الْإِعْصَارُ - بگولہ، جہ - أَعَايِرُ وَأَعَايِيرُ -
کہتے ہیں - وَعَدَةُ أَعْصَارٍ لَيْسَ لَعْدَةً

لِأَعْصَارٍ - اس کے وعدہ کے لیے وفا
نہیں - اس قول میں اِعْصَارٌ بمعنی بگولہ

اور دوسرا اِعْصَارٌ مصدر ہے - اِعْصَرَ
الْقَوْمَ - بمعنی بارش ہونا۔

الْمَعْصَرَةُ وَالْمَعْصَرُ - بُخُولٌ كِي جَعَّ -
کہتے ہیں - هُوَ كَرِيهُمُ الْمَعْصَرُ -

سَوَالُ كِي وَقْتُ سَمِي ہے -
الْمَعْصَرُ وَالْمَعْصَرَةُ - اَنُكُورُ وَغَيْرُهُ كِي

بُخُولٌ كِي آء -
الْمَعْصَرُ - وَہ چیز جس میں کچھ بخوڑیں۔

الْمَعْصَرَاتُ - بَادِلٌ -
الْعَصْعَصُ وَالْعَصْعَصُ - دُمٌ كِي بڑی۔

جہ - عَصَاعِصٌ - الْعَصْعَصُ - كَمٌ
بھلائی والا مرد - اَكْهَرُ مَزَاجٍ مَضْبُوطٌ -

الْعَصْعَصُ - دُمٌ كِي بڑی - جہ - عَصَاعِصٌ -
عَصَفَتْ رِيضًا، عَسَفًا وَعَصُوفًا - الرِّيحُ

ہوا تیز چلنا - صَفَتٌ عَايِفَةٌ - وَ
عَايِفٌ - النَّاكَةُ بِرَاكِبِهَا -

اَوْتِئِي كَاتِرٌ لِّجَانَا - الرَّجُلُ - دَوْرًا -
عَصَفَ الشَّيْءُ، مَائِلٌ ہونا - کہتے ہیں۔

عَصَفَتِ الْحَرْبُ بِالْقَدَمِ، لَطَأَتْ لِي
قَوْمٌ كَوْبًا كَرِيًّا - عَصَفَتِ الدَّهْرُ -

بہشت - زمانے نے ہلاک کر دیا - وَ
اعْتَصَفَ عِيَالَهُ - اولاد کے لیے

کمانا -
عَصَفَ رَنٌ، عَصَفًا - الزَّرْعُ كِهَيْتِي كَوْتِيَارِي

سے پہلے کاٹ لینا -
اعَصَفَ - الزَّرْعُ كِهَيْتِي كَاثِنُ كِي لَائِقُ

ہونا - اعَصَفَتِ الرِّيحُ - ہوا تیز چلنا -
صَفَتٌ مُعْصِفَةٌ وَ مُعْصِفٌ - جہ -

مَعَايِفٌ وَمَعَايِفٌ - الرَّجُلُ
ہلاک ہوا - راسے سے بٹ جانا -

اعَصَفَتِ الْحَرْبُ بِسَهْمٍ - تَبَاهٍ
کر دیا -

اِسْتَعَصَفَ - الزَّرْعُ تَنَادَرُ ہونا -
العَصْفُ - کھیت کے پتے - عَصَفُ

الرَّيْبِ مِسْجُورٌ كِي تَنَكُّ - عَصَفُ
الْإِثْمَانِ وَغَيْرُهُ - اَشْدُّ وَغَيْرُهُ كَاغْبَارِ -

العَصْفَةُ - عَصَفَ كَا سَمَرَةٍ - ثَرَابُ كِي
بدبو کھیتی کے ڈنٹھل کے پتے -

العَايِفُ - سَهْمٌ عَايِفٌ - نَشَانٌ سِ
بٹا ہوا تیر - يَوْمٌ عَايِفٌ - تیز ہوا

کادن -
العَايِفَةُ - مَوْتٌ عَايِفٌ - جہ - عَايِفَاتٌ

وَعَوَايِفٌ -
العَصُوفُ - تیز ہوا - جہ - عَصَفٌ -

العَصِيفُ - تیز ہوا -
العَصِيفَةُ - وَہ پتے جس کے درمیان نوشہ

ہوتا ہے -
العَصَافَةُ - وَہ تنکے جو خوشے سے گریں۔

كُوْطَا كَرُكٌ جِسْ كُوْهًا اُطَا كَرَا لَئِي -
عَصْفَرُ - الثَّوْبُ - کپڑے کو زرد رنگنا۔

تَعَصَّفَرُ - الثَّوْبُ - زرد رنگ کا ہونا -
تَعَصَّفَرَتِ الْعُنُقُ - گردن ٹیڑھی ہونا۔

العَصْفَرُ - زرد رنگ -

العَصْفُورُ - چڑیا، بروہ پرند جو کتر سے چھوٹا
ہو - جہ - عَصَا فَيَزِيْرُ مَوْتٌ عَصْفُورَةٌ -

العَصْفُورُ - پيشانی، پيشانی کے بال
اگنے کی جگہ - وَہ کڑی جس سے بالان کے

سے باندھتے ہیں، گھوڑے کی پيشانی کی
اٹھی ہوئی ٹیڑی جو دائیں بائیں دونوں جانب

ہوتی ہیں - کتاب - کشتی کی میخ، سردار
کہتے ہیں - لَقْتُ اَوْصَاحِي عَصَا فَيَزِيْرُ

بَطْنِيْہ - بھوکا ہونا -
العَصْفُورَةُ - کُلْ خِيْرُو كَا زَرْدِ پھول۔

العَصْفُورُ - زُرْطِي - جہ - عَصَا قِيْلُ -
العَصَا قِيْلُ - بگولہ۔

عَصَلَ رَسٌ، عَصَلًا - الشَّيْءُ - سَمِي كِي
ساتھ ٹیڑھی ہونا - صَفَتٌ عَصِلٌ وَ

اعَصَلَ - مَوْتٌ عَصِلَةٌ وَعَصَلَاءُ
جہ - عَصَالٌ وَعَصَلٌ - وَاعَصَلَ،

سخت ہونا -
عَصَلَ رَنٌ، عَصَلًا - الْعُوْدُ - کڑی کو

ٹیڑھا کرنا -
عَصَلَ - السَّهْمُ تِيْرًا كَا طِيْرًا ہونا - دیر

کرنا -
الْعَصْلُ وَالْعَصْلُ - آء - جہ - اعَصَالَ -

الْيَعَصْلُ - مَقْرُونٌ پَر سَمِي کرنے والا -
الْيَعَصَالُ وَالْيَعَصِيلُ - ٹیڑھے روال لاٹھی

جس کو عوام مُعْقِلَةٌ - يَا بَا كُوْر - کہتے
ہیں - ڈنڈا - جہ - مَعَا صِيلُ -

عَصَلَبٌ - سَمِي غَضَبٌ نَاكٌ ہونا - سَمِي
بچنے والا ہونا -

العَصَلَبُ وَالْعَصَلَبُ وَالْعَصَلَبِيُّ وَ
العَصْلُوبُ - بڑے ٹیل ڈول کا

مضبوط مرد -
عَصَمَ رَمْنٌ، عَصَمًا - الرَّجُلُ - کمانی کرنا

- الشَّيْءُ - رُكٌ لِيْنَا - اَللّٰهُ فُلَانًا
مِنَ الْمَكْرُوْدِ - محفوظ رکھنا - بچانا -

عَصَمَ الْقَرْبَةَ - مَشْكٌ كُوْر سِي سے





باندھنا۔ اِلٰی فُلَانٍ۔ پناہ لینا۔
عَصَمَ دَس، عَصَمًا۔ الظَّمیٰ سفید ٹانگوں
والا ہونا۔

اَعَصَمَ۔ بہ۔ پکڑنا اور لازم ہونا۔
بِالْقُرْسِ۔ ایال پکڑنا۔ مِنَ الشَّيْءِ۔
باز رہنا۔ الْقُرْبَةُ۔ رسی سے باندھنا۔
اَعْتَصَمَ بِهِ۔ ہمت سے پکڑنا۔ لِصَاحِبِهِ
لازم ہونا۔ بِاللَّهِ۔ اللہ کی مہربانی سے
گناہ سے باز رہنا۔ مِنَ الشَّيْءِ وَ
الْمَكْرُوهِ۔ پناہ لینا اور باز رہنا۔
اِنْعَصَمَ۔ محفوظ ہونا۔ کہتے ہیں۔ عَصَمْتُهُ
فَاِنْعَصَمَ۔ میں نے اس کی حفاظت کی
تو وہ محفوظ ہو گیا۔
اِسْتَعَصَمَ۔ بہ۔ مضبوط پکڑنا۔ لازم ہونا۔
پناہ لینا۔ باز رہنا۔ بچانے والی چیز کا
قصد کرنا۔

العَصْمُ والعَصْمُ۔ ہر چیز کا باقی حصہ۔
خضاب وغیرہ کا اثر۔
الْوَصَامُ۔ رُمرہ، دم کا باریک حصہ۔ مِنَ
الْقُرْبَةِ۔ مشک باندھنے کی رسی۔
مِنَ الْوَعَاءِ۔ دستہ، عمدہ مجاز آتا
ہے، جو۔ اَعَصَمَهُ عَصْمٌ، عَصَامٌ۔
الْوَصَامِيُّ۔ عصام کی طرف منسوب ہے جو
کہ نعمان بن منذر شاہ حیرہ کا صاحب تھا۔
ذاتی شرافت والا۔ اسی سے مثل ہے۔
كُنْ عَصَاوِيًّا لَا عَقَاوِيًّا۔ عصام کی
طرح ذاتی شرافت پیدا کرو، آباؤ اجداد
پر فخر نہ کرو۔

الْعِصْمَةُ۔ بچاؤ، گناہوں سے بچنے کا ملکہ۔
الْعِصْمَةُ۔ گلوبند، پٹہ۔ جو۔ عِصْمٌ
اَعْقَمَ، عِصْمَةً۔ حج اَعَصَامٌ۔
العِصْمَةُ۔ گلوبند، پٹہ۔
الْاَعْصَمُ۔ وہ جانور جس کے اگلے دو
پاؤں سفید ہوں یا ایک سفید ہو۔
مَوْنَتٌ، عَصَمَاءُ۔ جو۔ عِصْمٌ۔

العِصْبُ۔ پسینہ، ہر چیز کا باقی حصہ، خضاب
وغیرہ کا اثر۔

العَصُومُ والعِصُومُ۔ بہت کھانے والا۔
(مذکر و مؤنث)۔

العَاصِمَةُ۔ مدینہ منورہ کا لقب۔ دار السلطنت
جو۔ عَوَاصِمُ۔

الْمُعَصَّمُ۔ کافی۔ جو۔ مَعَاصِمُ۔
الْمُعْتَصَمُ۔ پناہ لینے کی جگہ۔

عَصَا يَعْصُوا عَصَوًا۔ الْوَجَلُ۔ لالھی
سے مارنا۔ الْجَوْرُ۔ زخم کو باندھنا۔

الْقَوْمُ۔ نیکی یا بدی پر جمع کرنا۔
عَصَى يَعْصِي عَصًا۔ لالھی لینا۔ و

اَعْتَصَى، بِالسَّيْفِ۔ تلوار مارنا۔
اَعْتَصَى الشَّيْءَ۔ کسی چیز کو لالھی بنانا۔

اَعْتَصَى عَلَيْهِ۔ ٹیک لگانا۔
عَصَى تَعَصِيَةً۔ فَلَانًا الْعَصَا۔ لالھی

دینا۔
اِعْصَى اَعْصَاءً۔ الْكُرْمُ۔ شاخوں کا ٹکنا

اور پھل نہ آنا۔
عَاصَاهُ مُعَاصَاةً۔ فَعَصَاهُ۔ لالھی سے

مار پیٹ کی اور غالب ہو گیا۔
العَصَا۔ لالھی، سہارے کی چیز، مؤنث، جو

عِصْبِيٌّ وَعِصِيٌّ، اَعْصَى، اَعْصَاءُ
اور تشبیہ عَصَوَانٌ ہے۔ الْعَصَاءُ

اجتماع، جماعت، پٹلی کی بڑی، زبان
کہتے ہیں۔ شَقَّى الْعَصَا۔ جماعت کی

مخالفت کی۔ اِلْتَشَقَّتْ عَصَا الْقَوْمِ۔
آپس میں اختلاف پڑ گیا۔ قَرَعَ لَهُ

الْعَصَا۔ متنبہ کرنا۔ فَشَّرَكَ الْعَصَا
عِنْدَهُ۔ ظاہر کرنا۔ قَرَعَهُ بِعَصَا

الْمَلَامَةِ۔ حد سے زیادہ ملامت کرنا
اَلْتَقَى الْمَسَافِرُ الْعَصَا۔ مسافر اپنے

مقام پر پہنچ گیا۔ اَلْتَقَى عَصَا الرَّجَالِ
اس نے اقامت کی۔ النَّاسُ عِيبِيَّةُ
الْعَصَا۔ لوگ ڈنڈے سے ڈرتے ہیں

الْعَصِيَّةُ۔ عصا کی تصویر، چھوٹا ڈنڈا۔
عَصَى يَعْصِي عَصِيًّا وَمَعْصِيَةً۔

سَيِّدًا كُ۔ نافرمانی کرنا۔ مخالفت کرنا،
دشمنی کرنا۔ صفت عَاصٍ۔ جو۔ عَصَاةٌ

وَعَاصُونَ۔ الطَّائِرُ۔ پرند کا اڑنا۔
الْعَوِيُّ۔ خون نہ بند ہونا۔

عَاصَاهُ مُعَاصَاةً وَتَعْصِيً۔ عَلَيْهِ۔
تَعْصِيًّا۔ نافرمانی کرنا۔ تَعْصَى الرَّأْمُ

دشوار ہونا۔
اَعْتَصَتْ اَعْتِصَاءً۔ النَّوَاةُ۔ گھٹلی کا

سخت ہونا۔
اِسْتَعْصَى۔ سَيِّدًا كُ، مالک کی نافرمانی کرنا

۔ الشَّيْءُ عَلَيْهِ۔ دشوار ہونا۔ سخت
ہونا۔

الْعَصِيُّ۔ نافرمان، گنگار۔ جو۔ عِصْيُونٌ
وَعِصِيَاءُ۔

الْعَصَاءُ۔ نافرمان، گنگار۔ جو۔ عَصَاؤُونَ
الْمَعْصِيَّةُ۔ گناہ، لغزش۔ جو۔ مَعَاصِي

عَصَتُهُ دَس، عَصَا وَعَوِيْعَةً۔ دانت سے
پکڑنا، کاٹنا۔ با اور علی کے صلہ کے ساتھ

عَصَى بِهِ۔ اور عَصَى عَلَيْهِ آتا ہے۔
كُ الزَّمَانُ۔ سخت ہونا۔ الشَّيْءُ۔

لازم ہونا اور پکڑنا۔
عَصَصَ۔ بہت کاٹنا۔

عَاصَتْ مُعَاصَةً وَعِصَاصًا۔ الدَّوَابُّ
جانوروں کا ایک دوسرے کو کاٹنا۔

اَعَصَّهُ الشَّيْءُ۔ دانت سے کٹوانا۔
اَعَصَّتِ الْبُتْرُ۔ بہت پانی والا ہونا۔

تَعَاَصَا۔ ایک دوسرے کو دانت سے کاٹنا۔
الْعِصُّ۔ بد خلق، خبیث، بخیل، بہت قوی۔

مَصِيبَتٌ، مَسْرُ، مال کا منتظم۔ جو۔
اَعْصَاصٌ وَعُصُوصٌ۔ الْعِصُّ۔

چھوٹا کانٹے دار درخت۔ جو۔ اَعْصَاصٌ
الْعِصُّ۔ جو، گیہوں، اسپست، سوکھی گھاس
چھوٹا کانٹے دار درخت۔

العَصَا حُ - جو چیز دانت سے کاٹی اور کھائی جائے، موٹا درخت۔

العَصَا حُ - دانت سے کاٹنا، کتنے ہیں۔
”هُوَ عِصَا حُ عِشِي حُ“ سخت زندگی پر صابر ہے۔

العَصِي حُ - عصا کاٹ، ہمسر۔
العَصُ حُ والعَصَا حُ - بہت کاٹنے والا۔
يَتَوَكَّلُ عَصُ حُ بہت پانی والا کنواں۔
العَصَا حُ والعَصَا حُ - ناک کا اوپر والا سخت حصہ۔

عَضَبَ رَضَ عَضِبَا - قطع کرنا۔
الْبَرْ حُ - حرکت سے روکنا۔
يَا لَمْ يَحْجِزْ نِزَهَارَنَا - ع بِالْعَصَا -
لا طمأنا - ع عَنِ الْأَمْرِ - روک دینا۔
عَالِي سَانِه - گالی دینا۔
عَضِبَ عَنْهُ - رجوع کرنا اور عَضِبَ النَّاقَةَ دَنَحَوْهَا - اونٹنی کا کان پھاڑ دینا۔

عَضِبَ رَضَ عَضِبَا - الْكَبَشُ - مینڈھے کا پھٹے کان والا ہونا، ٹوٹے سینک والا ہونا۔

عَضِبَ دَكَ عَضُوبًا وَعَضُوبَةً - چرب زبان ہونا۔

عَاضِبُهُ مُعَاضِبَةٌ - الْقَرْنُ - سینک کا ٹوٹ جانا۔

العَضِبُ - نیز تلوار۔ چرب زبان۔

الْأَعَضِبُ - پھٹے کان والا۔ ٹوٹے سینک والا۔ جس کا بھائی نہ ہو۔ بے مددگار۔
مَوْتٌ عَضْبَاءُ - جر عَضِبٌ -

العَصَابُ - بہت کاٹنے والا۔ بہت گالی دینے والا۔

الْمَعْضُوبُ - کمزور، بُجا کہتے ہیں۔ ”إِنَّهُ لَمَعْضُوبٌ الْمَسَانِ“ بولنے میں عاجز۔
عَضِيرٌ عَضِيرَةٌ - الْكَلْبُ - شیر کی مانند ہونا۔

الْعَصْبَارَةُ - چمکی کا پاٹ، دھوپ کا پتھر۔
عَضَدَ دَسَ عَضَدًا - مدد کرنا۔ بازو پر مارنا۔
عَضَدَ دَسَ عَضَدًا - الشَّجَرَةَ - درخت کو درانتی سے کاٹنا۔ اونٹوں کے لیے پتے بھاڑنا۔

عَضَدَ دَسَ عَضَدًا وَعَضَدَ عَضَدًا - بازو میں درد ہونا صفت عَضَدٌ - مونٹ عَضَدَةٌ۔
عَضَدَ وَأَعَضَدَ - السَّيْفُ - تیر کا داہیں بائیں نکالنا۔

عَاضَدُهُ مُعَاضِدَةٌ - مدد کرنا۔
تَعَاضَدُوا - ایک دوسرے کی مدد کرنا۔
رَاعَتْنَاهُ وَتَعَضَّدُ ع - بخل میں لینا۔
رَاعَتْنَاهُ - بلہ - مدد مانگنا، مضبوط ہونا۔
رَسْنَعَتْنَاهُ - الشَّجَرَةَ - درخت کو درانتی سے کاٹنا۔ التَّمَوَّةُ - پھل چننا۔

العَضُدُ - مہم - مددگار۔ گوشہ - جر۔
أَعَضَدُ -

العَضُدُ وَالْعَضُدُ وَالْعَضُدُ - بازو۔ جر۔
أَعَضَدُ وَأَعَضَدُ -

عَضُدٌ كُلُّ شَيْءٍ وَعَضَدُهُ وَأَعَضَدُهُ - وہ چیز جس سے عمارت کے آس پاس کو مضبوط کیا جائے۔ جیسے حوض کے کنارے پتھر کھڑے کر دیتے ہیں۔ عَضُدٌ الطَّرِيقِ - راہ کا پہلو۔ کتنے ہیں۔
فُتَّ فِي عَضِدِهِ - اپنے مددگاروں سے جدا ہو گیا۔

العَضُدُ - کٹا ہوا درخت، قوت - اونٹ کے بازو کا ایک مرض۔ بھاڑے ہوئے پتے۔

العَضَادُ - بہت قدرندہ (مؤنٹ) موٹے بازو والا۔

العَضَادُ - بازو بند، تعویذ وغیرہ جو بازو پر باندھے ہیں۔ درانتی، اونٹ کے بازو کا نشان۔

الْعِصَادَةُ - مِنَ الطَّرِيقِ - راہ کا پہلو۔
عِصَادَتَا الْبَابِ - چوڑکھٹ کے دونوں بازو۔ کتنے ہیں۔
فَلَانٌ عِصَادَةُ فَلَانٍ - مددگار۔

الْعِصَادِيُّ وَالْعِصَادِيُّ وَالْعِصَادِيُّ - موٹے بازو والا۔

العِصِيدُ - کھجور کے درختوں کی قطار۔ درخت سے کٹا ہوا۔ جر۔ عِصْدَانٌ۔

الْأَعَضُدُ - دبے بازو والا۔ جس کا ایک بازو چھوٹا ہو۔

الْعَوَاضِدُ - کھجور کے درخت جو نہر کے دو جانب ہوں۔

الْمِعْضَدُ - درخت کا ٹٹے کی درانتی۔ جر۔
مَعَاضِدُ -

الْمِعْضَادُ - بازو بند، بڑی کاٹنے کی بڑی چھری، درانتی۔

الْمِعْضَدَةُ - تھیلی، بٹہ۔
الْعَضْرُسُ وَالْعَضَارُسُ - بھری، اولے،

برف، ٹھنڈا۔ میٹھا پانی۔ گورخر۔ جر۔
عَضَارُسُ -

الْعَضْرُطُ - کھانے پر مزدوری کرنے والا۔ جر۔
عَضَارِطُ وَعَضَارِطَةٌ۔

الْعَضْرُطُ وَالْعَضْرُطُ - کینہ۔
قَوْمٌ عَضَارِيطُ - فقیر لوگ۔

عَضَلَّ رَضَ عَضَلًا - علیہ تنگی کرنا۔
مَنْعَ كَرْنَا - بُلَا الْأَمْرِ - سخت ہونا۔

الرَّجُلُ عَضَلٌ - عَضَلٌ - عَضَلٌ -

عَضَلَّ رَضَ عَضَلًا - عَضَلًا - عَضَلًا -

النَّوَاحِجُ - نکاح سے روکنا، منع کرنا۔
الرَّجُلُ - رنڈوا کر دینا۔

عَضَلَّ رَضَ عَضَلًا - بہت سخت گوشت والا ہونا۔ پٹلی کا عضلہ موٹا ہونا۔ صفت عَضَلٌ وَعَضَلٌ۔

عَضَلَّ - علیہ تنگی کرنا۔ حصول مقصد میں





مائل ہونا۔ عَصَلُ الْمَرْأَةِ عَيْنُ
الزَّوْجِ۔ نکاح سے روکنا۔ المکان
تنگ ہونا۔ کہتے ہیں عَصَلَتِ الارضُ
بِأَهْلِهَا۔ کثرت کی وجہ سے زمین کا تنگ
ہونا۔ عَصَلَتِ الْمَرْأَةُ أَدْلَاجًا
وَعَبْرُهَا مِنَ الْخِيَوَانِ يُولَدُهَا۔ وضع
حمل کا دشوار ہونا۔ صفت مُعَصِّلٌ۔
أَعَصَلَ الْأُمُّ۔ سخت ہونا۔ مشکل ہونا۔
أَعَصَلَتِ الْمَرْأَةُ وَنَحْوَهَا مِنَ
الْخِيَوَانِ يُولَدُهَا۔ بچہ جنم میں مشکل
ہونا۔ صفت مُعَصِّلٌ وَمُعَصِّلَةٌ۔ جہ
مَعَاذِيلٌ۔ أَعَصَلَ بِهِ الْأُمُّ۔
مشکل ہونا جلد تنگ ہونا۔ الْأُمُّ
فَلَانًا۔ غالب آنا اور عاجز کر دینا۔
أَعَصَلَنِي فَلَانٌ۔ کام کا تھکا دینا۔ عاجز
کر دینا۔ وَتَعَصَّلَ الدَّاءُ الْأَطْبَاءَ
بِمَارِي كَالْهَيْبِ كَوَاجِزٍ كَرَدِينَا۔
الْعَصْلُ۔ بہت بُرا۔ بڑا چالاک۔
الْعَصْلُ۔ بڑا ہونا۔ جہ۔ عَصْلَانٌ۔
الْعَصْلَةُ۔ سخت گوشت گوشت اور پیٹھے کا
مجموعہ۔ جہ عَصَلٌ وَعَصَلَاتٌ۔
الْعَصْلَةُ۔ درخت کنیر کی مانند ایک
درخت۔
الْعَصِيلَةُ۔ عضلہ۔ جہ۔ عَصَائِلٌ۔
الْعَصْلَةُ۔ مہسبت۔ جہ۔ عَصْلٌ وَعَصْلٌ۔
الْعَصَالُ۔ سخت۔ دَاوْعَصَالٌ۔ عاجز کر
دینے والا مرض۔
الْمُعَصِّلُ۔ فَا۔ بہت بُرا۔ دَاوْعُ مُعَصِّلٌ
تھکا دینے والا یا لا علاج مرض۔
الْمُعَصِّلَةُ۔ مُعَصِّلٌ كَامُوثٌ۔ مشکل
پیچیدہ مسئلہ۔ جہ۔ مُعَصِّلَاتٌ۔
الْمُعَصِّلَاتُ۔ سختیاں۔
الْمُعَصِّلَةُ وَالْمُعَصِّلَةُ۔ مشکل پیچیدہ معاملہ
الْعَضْمُ۔ کمان کا قبضہ۔ جہ۔ عَضَامٌ۔
گہوں صاف کرنے کا شاخ دار لکڑی۔ جہ۔

عُضْمٌ وَأَعْصِمَةٌ۔
عَضَهُ رَفْعُهَا وَعَضَهَا وَعَضَهَا
وَعَضِيْهَا۔ جھوٹ بولنا۔ چل خوری
کرنا۔ جادو کرنا۔ عَضَهَا الْبَعِيرُ۔
بول کا درخت کھانا۔ الرَّجُلُ صَرَخَ
كَالِي دِينَا۔ بہتان لگانا۔
عَضَهُ رَسَ عَضَهَا وَأَعْصَهُ۔ بہتان
لگانا۔ جھوٹ بولنا۔
الْعَاضَةُ۔ فَا۔ جادوگر۔ حَبِيَّةٌ عَاضَةٌ وَ
عَاضِيَةٌ۔ وہ سانپ جس کا ڈسافورا
مر جائے۔ جہ۔ عَوَاضُهُ۔
الْعِضَةُ۔ جھوٹ۔ جادو۔ جہ۔ عِضُونٌ۔
الْعِضَاءُ۔ ہر بڑا کانٹے دار درخت۔ واحد
عِضَاهَةٌ وَعِضَةٌ۔ کہتے ہیں "فُلَانٌ
يَنْتَعِبُ غَيْرَ عِضَاهِي"۔ غیر کے شعر
کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔
الْعِضَاهِيُّ وَالْعِضْمِيُّ وَالْعِضْوِيُّ۔
مِنَ الْإِبِلِ۔ وہ اونٹ جو کانٹے دار
درخت کھائے۔ مَكَانُ عِضَةٍ۔ کانٹے
دار درختوں والی جگہ۔
الْعَاضِيَةُ۔ مَوْتٌ عَاضَةٌ۔ جھوٹ۔
بہتان۔ جہ۔ عَوَاضُهُ۔
عِضًا يَعْضُو عِضْوًا وَعِضِيَّةٌ۔
الشَّيْءُ يَتَفَرَّقُ كَرْنَا۔ الشَّاةُ۔ جدا جدا
کرنا۔ عِضِي الْقَوْمِ۔ مہربانانا۔
الْعِضْوُ وَالْعِضْوُ۔ بدن کا حصہ۔ عضو کسی
جماعت کا ممبر۔ جہ۔ أَعْصَاءٌ۔
الْعِضَةُ۔ فرقہ۔ ٹکڑا۔ جھوٹ۔ جہ۔
عِضُونٌ۔
رَجُلٌ عَاضٍ۔ مرد خوش عیش مرفہ الحال۔
عِظَانٌ عِظًا وَعِظًا وَاعْتِظَ۔
الثَّوْبُ۔ کپڑا پھاڑنا۔ صفت مفعول۔
عِظِيْطًا۔ عِظًا الرَّجُلُ إِلَى الْأَرْضِ
پچھاڑ دینا اور غالب ہونا۔
الْعِظُ۔ العود۔ لکڑی کا مٹار۔ وَتَعَقَّطَ

الثَّوْبُ۔ کپڑے کا پھٹنا۔
الْعِظَاطُ۔ بڑا بہادر شیر۔
الْأَعْظُ۔ لمبا۔
عِظَبٌ رَسَ عِظَبًا وَاعْتِظَبَ۔ ہلاک
ہونا۔ الفرسُ وَنَحْوُهَا۔ گھوڑے وغیرہ
کا ٹٹنا۔ عِظَبٌ عَلَيْهِ۔ سخت غضبناک
ہونا۔ اِعْتِظَبَ النَّارُ۔ آگ کو جیتھڑ
میں لینا۔
عِظَبٌ رَسَ عِظَبًا وَعِظَبًا۔ الْقُطْنُ۔
روٹی کا نرم ہونا۔
عِظَبٌ۔ الشَّرَابُ۔ خوشبودار کرنے کی
تدبیر کرنا۔ الْكُرْمُ خوشہ انگور کی
گرہیں ظاہر ہونا۔
أَعْظَبَهُ۔ ہلاک کرنا۔
الْعُظْبُ وَالْعُظْبُ۔ روٹی۔
الْعُظْبَةُ۔ روٹی کا ایک ٹکڑا جیتھڑا جس
میں آگ لی جائے کہتے ہیں "أَجْدَرِيحَ
عُظْبِيَّةً"۔ جلی روٹی کی بو محسوس کرتا
ہوں۔
الْمُعْظِبُ۔ فقیر۔
الْمُعْظِبُ۔ جانے ہلاکت۔ جہ۔ مَعَاظِبُ۔
الْعُظْبُ وَالْعُظْبُ وَالْعُظْبُكَ وَ
الْعِظْبُولُ۔ جوان خوبصورت۔ دراز
گردن عورت۔ جہ۔ عِظَابِلٌ وَعِظَابِلٌ
الْعُظْبُ وَالْعُظْبُولُ۔ دراز گردن ہرنی۔
عِظَرٌ رَسَ عِظَرًا خوشبودار ہونا۔ صفت
عِظَرٌ۔
عِظَرٌ خوشبودار کرنا۔
تَعِظَرٌ وَاسْتَعِظَرٌ خوشبودار ہونا۔
تَعِظَرَاتُ الْبَنَاتِ۔ بغیر نکاح کے والدین
کے پاس رہنا۔
الْعِظَرُ۔ خوشبو، ایک قسم کی نبات۔ جہ
عِظَرٌ۔
الْعَاطِرُ۔ عطر پند کرنے والا۔ زیادہ عطر
لگانے والا۔ جہ۔ عِطْرٌ۔



ہونا۔ مفت عَاطِلٌ و عَاطِلَةٌ د
عُطِّلٌ۔ ج۔ عَاطِلَاتٌ و عَوَاطِلُ و
عُطِّلٌ وَاَعْطَالٌ۔

عَطَّلَ دِنَ، عَطَاةً۔ الرَّجِيؤُ۔ مزدور کا
بیکار ہونا۔

عَطَّلَ۔ الشَّيْءُ بِكَارٍ جُھوڑ دینا۔ الْمَرْأَةُ
زبور اتار لینا۔ الْقَوَسُ۔ کمان سے
تانت نکال لینا۔ عَطَّلَتِ الْإِبِلُ۔
بغیر جروا ہے کے ہونا عَطَّلَ الْإِبِلُ۔
بہن چرواہے کے جھوڑ دینا۔ الْبُسُورُ۔
کنویں پر جانا جھوڑ دینا، ہر وہ چیز جس کو
رہنہ کر کے جھوڑ دیا ہو۔ اس پر تعطیل کا
اطلاق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں: "عَطَّلَتِ
الْبُخَارُوقُ وَالْمَغْوَرُ"۔ سرحدیں بلا
خافہ جھوڑ دی گئیں۔ عَطَّلَتِ
الْمَرْأَةُ عَمَلَهَا۔ کہتیاں جوتی ہوئی نہیں
گئیں۔ عَطَّلَتِ الرَّعْبَةُ رَعِيَّتَہَا
بغیر والی کے رہی، ایسی قوم کو مَعَطَّلُونَ
کہتے ہیں۔

تَعَطَّلَ۔ بیکار ہونا۔ تَعَطَّلَتْ وَاسْتَعْطَلَتْ۔
الْمَرْأَةُ عَمَلَهَا۔ عورت بے زیور ہونا۔
الْعَطْلُ۔ کلا، شخص کہتے ہیں: "مَا أَحْسَنَ
عَطْلَهُ"۔ اس کا قد کیسا موزوں ہے۔

الْعُطْلَةُ۔ بیکاری۔
الْعَطِيلُ وَالْعَيْطَلُ۔ مذکر کھجور کے خوشے
کا نام۔ الْعَيْطَلُ۔ خوبصورت لمبی
گروں والا۔

الْعَطْلَاءُ۔ مِنَ الْبَسَاءِ۔ بے زیور عورت۔
الْمُعْطَالُ۔ مِنَ الْبَسَاءِ۔ بے زیور
رہنے والی عورت۔

التَّعْطِيلُ۔ بے کار رہنا۔ مَذْهَبُ
التَّعْطِيلِ۔ صفات الہی کے نہ ماننے
والوں کا مذہب۔

الْمُعْطِلَةُ۔ مذہب تعطیل کے ماننے والے۔
عَطَّطَ۔ الرَّجُلُ۔ ہلاک ہونا۔ صفت

عَاطِمٌ و عَاطِيمٌ۔ ج۔ عُطْمٌ۔
الْعُطْمُ۔ دھنی ہوئی روٹی۔

عَطَنَ دِنَ، عَطْنًا۔ الْجِلْدُ۔ کھال کو
گو بریا نمک میں ڈالنا۔ صفت مفعولی۔
عَاطِنٌ و مَعَطُونٌ۔ د۔ عُطُونًا

اونٹ سیراب ہو کر بیٹھنا۔ صفت۔
عَاطِنٌ۔ ج۔ عَطَانٌ و عُطُونٌ و
عَطْنَةٌ۔ مونت عَاطِنَةٌ۔ ج۔

عَاطِنَاتٌ و عَوَاطِنٌ و عُطُونٌ
عَطِنَ دِنَ، عَطْنًا۔ الْجِلْدُ۔ کھال کا نمک
یا گو بریں بٹنا۔ صفت عَطِنٌ۔

عَطَنَ۔ الْجِلْدُ۔ کھال کو نمک یا گو بریں
ڈالنا۔ د۔ عَطْنٌ، الْإِبِلُ۔ دوبارہ
پانی پلانے کے لیے آرام دینا۔ عَطَنَ

الْإِبِلُ۔ اونٹ کے بیٹھے کو جگہ بنانا۔
عَطَّنَتِ الْإِبِلُ۔ اونٹ کا سیراب ہو
کر بیٹھنا۔

الرُّعْطَنُ۔ الْجِلْدُ۔ کھال کا نمک یا گو بر
میں بٹنا۔

الرُّعْطَنُ وَالْمَعُطْنُ وَالْمَعُطْنُ۔ اونٹ
کے بیٹھنے کی جگہ، حوض کے آس پاس
بکریوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ ج۔ مَعَاطِنٌ۔

الْعِطَانُ۔ وہ گو بریا نمک جس میں کھال کو
ڈالا جائے تاکہ بال الگ ہو جائیں۔
رَجُلٌ عَطِينٌ و عَطِينَةٌ۔ بددو والا مرد۔

عَاطَا يَعْطُو عَاطُوا۔ الشَّيْءُ وَآلِيہُ۔ لیا۔
۔ الیہ یدُہ۔ بلند کیا۔

عَطَى تَعْطِيَةً الرَّجُلُ۔ جدی کرائی۔
خدمت کی۔

أَعْطَى عَطَاةً۔ الشَّيْءُ دِی۔ أَعْطَى
الْبَعِيْرُ۔ اَوْ أَعْطَى الْبَعِيْرُ بَعِيْرًا۔
میتع ہوا۔

عَاطَى مَعَاظَاةً و عَطَاةً۔ الرَّجُلُ
الشَّيْءَ دِی، ۔ کا خدمت کی۔
تَعَاطَى تَعَاظِيًا۔ الشَّيْءَ لِنَا۔ الْأَمْرُ

مشتول ہوا۔ الرَّجُلُ۔ کسی چیز کو کپڑے
کے لیے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑا ہوا۔ کہتے
ہیں: "تَعَاظِيْنَا قَعَطُوْنَا"۔ ہم نے
سخاوت میں مقابلہ کیا۔ تو میں غالب آگیا
تَعَطَّى تَعْطِيًا۔ جلدی کرنا۔ الامر۔
مشتول ہونا۔

تَعَطَّى وَاسْتَعَطَّى اسْتِعْطَاءً۔ عطیہ مانگا۔
الْعَطَا وَالْعَطَاءُ۔ عطیہ۔ ج۔ أَعْطِيَةٌ۔
ج۔ أَعْطِيَاتٌ۔

الْعَطِيَّةُ۔ عطا۔ ج۔ عَطَايَا و عَطِيَّاتٌ۔
الْعَطَاةُ و الْعَطَاةُ۔ عطا۔
الْمُعْطَاءُ۔ بہت دینے والا (مذکر و مؤنث)۔

ج۔ مَعَاظٍ و مَعَاظِيٌ۔
عَطْلَةُ دِنَ، عَطْلًا۔ بِالْإِزْنِ۔ چپکا دینا۔
عَطْنَةُ الْحَرْبِ۔ تکلیف پہنچانا۔

عَاطَلَهُ مَعَاظَةً و عِطَاطًا۔ سختی کرنا۔
تکلیف پہنچانا۔ عَاطَا الْقَوْمَ۔ جنگ
میں ایک دوسرے پر سختی کرنا۔

الْعَقْطَةُ۔ جنگ میں سختی۔
عَطَبَ دِنَ، عَطْبًا و عُطُوبًا۔ جلد کا
کھال کا خشک ہونا۔ بِلَاہُ۔ کام کرنے

سے ہاتھ کا موٹا ہونا۔
عَطَبَ دِنَ، عَطْبًا۔ عَلَى الْعَقْلِ۔ صبر سے
برداشت کرنا۔ موٹا ہونا۔ صفت۔
عُطُوبٌ۔

عَطْبَةٌ۔ عَنِ الْبُعِيْہِ۔ ٹالنا تاخیر کرنا۔
عَلَى الشَّيْءِ۔ عادی بنانا اور صابر
بنانا۔

الْعَاطِبُ وَالْعَطِبُ۔ جنگل اور خشک مقامات
میں اترنے والا۔

عَظِيْبُ الْخُلُقِ۔ بد خو۔
عَظُوْرُ عَظْرًا۔ الاناء۔ برتن کو بھرنا۔
أَعْظَرُهُ الشَّرَابُ۔ معدہ میں ثقیل ہونا۔

اس سے العَطَارَةُ اسم آتا ہے۔
الْعُظُوْرُ۔ شراب سے پریشم۔ ج۔ عُظُوْرٌ۔

الجُذَارُ - شراب کی وجہ سے امتلاء
عُظْمُ - السَّهْمُ - تیر کا نپتے ہوئے
بُیڑھا ہوجانا - الجَبَانُ - بزدل کا
بڑائی میں پیٹھ پھیرنا - فِي الْجَبَلِ -
پہاڑ پر چڑھنا -

عَظْلُ رَنْ، وَعَظْلُ رَسْ، عَظْلًا -
تَعَاظَلْ، عَظْلًا وَاعْتِظَلْ -
الْكَلْبُ أَوِ الرَّجْدُ - کتے یا بڑی کا
ایک دوسرے پر سوار ہونا -
عَاظَلَ الشَّيْءَ - سوار ہونا - الْكَلَامَ -

کلام کو محقق لانا اور تکرار کرنا - الشَّاعِرُ
فِي الْقَائِيَةِ - تَضَمِّنْ کرنا - بِالْكَلَامِ -
اپنے پر لوٹ کر آنے والی بات کہنا -
عَظَلَ وَتَعَظَلَ - الْقَوْمُ عَلَيْهِ - مارنے
کے لیے جھوم کرنا - تَعَظَلَ فِي اثْرِهِ -
تلاش کرنا -

الْعَاظِلُ وَالْعَاظِلَةُ وَالْعَظْلَى - مِنْ
الْجَرَادِ - ایک دوسرے پر چبڑھی
ہوتی بڑی -

أَعْظَمَ - الذِّلُّ - سخت تاریک ہونا -
الْعُظْمَةُ - تاریکی -

عَظَمَ رَنْ، عَظَمًا وَعَظَامَةً - بڑا ہونا
صفت عَظِيمٌ - جہ - عَظَمَاءُ -

عِظَامٌ وَعُظْمٌ - الْأَمْرُ عَلَيْهِ - دشوار
ہونا اور باعث شفقت ہونا -

عَظَمَ رَنْ، عَظَمًا - الْكَلْبُ - کتے کو
بڑی دینار - عَظْمَةً، الرَّجُلُ
بڑی پر مارنا -

أَعْظَمَ الْأَمْرَ - بڑا ہونا - الشَّيْءَ - بڑا
کرنا - بڑا سمجھنا - أَعْظَمَ الْكَلْبُ
عَظَمًا - کتے کو بڑی کھانا - کتے ہیں -
”مَا يُعْظِمُنِي أَنْ أَفْعَلَ كَذَا“
مجھے ایسا کرنے سے کوئی چیز ہول میں
بتلا نہیں کر سکتی -

عَظْمَةُ - تَعْلِيمٌ وَتَوْقِيرٌ کرنا - عَظْمَةُ الشَّاةِ -

بڑی بڑی کاٹ دینا -
تَعَظَّمْ - تکر کرنا -

تَعَاظَمَ - تکر کرنا - تَعَاظَمَهُ الْأَمْرُ -
بڑا ہونا - کتے ہیں - ”هُوَ أَمْرٌ لَا
يَتَعَاظَمُهُ الْأَمْرُ“ - یہ معاملہ سب
سے بڑا ہے -

اسْتَعَظَمَ - تکر کرنا - الْأَمْرُ - بڑا سمجھنا -
انکار کرنا - الشَّيْءَ - بڑا حصہ لینا -
الْعُظْمُ - بڑی جہ - أَعْظَمَ وَعِظَامٌ
وَعِظَامَةٌ -

عَظْمُ الشَّيْءِ وَعُظْمُهُ - چیز کا بڑا حصہ
جہ - أَعْظَامٌ -

الْعُظْمُ وَالْعِظْمُ وَالْعُظْمُ - بڑائی -
عَظْمُ الطَّيْرِ - راسنہ کا درمیان
الْعُظَامُ وَالْعُظَامُ - بڑا - مُؤَنَت -
عُظَامَةٌ وَعُظَامَةٌ -

الْعُظْمَةُ - بڑی کا ٹکڑا -
الْعُظْمَةُ - مِنَ الشَّاعِدِ أَوِ اللِّسَانِ
کلائی یا زبان کا موٹا حصہ - جہ -

عَظْمَاتُ - عَظْمَاتُ الْقِسْمِ -
سروران قوم - وَالْعُظُمُوتُ وَ
الْعُظَامَةُ غُور، نُحُوت، فُزْ -

الْعُظَامَةُ وَالْعُظَامَةُ وَالْعُظْمَةُ وَ
الْإِعْضَامَةُ - وہ گدی جس کو دو تین
بڑے سرین معلوم ہونے کے لیے
باندھتی ہیں -

الْعُظِيمَةُ - مُؤَنَتٌ عَظِيمٌ - سخت مصیبت
جہ - عَظَائِمُ - عَظَائِمُ الدُّبْرِ -
اللہ کے بڑے بڑے امور -

الْعَظِيمُ - سفیدی نال کہوتر -

مُعَظَّمُ - الشَّيْءِ - چیز کا بڑا حصہ - جہ
مَعَاظِمُ - کتے ہیں - ”لَنْ يَفْلُحَ
مَعَاظِمُ وَاجِبَةُ الْمُرَاعَاةِ“
فلاں کے لیے بڑے بڑے حقوق مہاجن
کی رعایت ضروری ہے -

الْمُعْظَمَةُ - سخت مصیبت -
عَظَا يُعْظَوُا عَظْوًا - فلاں غمگین کرنا -
غیبت کرنا - بھلائی سے روکنا، زہر
پلانا -

عَظِي يُعْظِي عَظِيًّا - فلاں غمگین کرنا
الْعَظَايَةُ وَالْعَظَايَةُ وَالْعَظَايَةُ وَ
الْعَظَايَةُ - ایک جانور چھپکلی کے
مناہ - عَظَاءٌ وَعَظَاءٌ - وَ
عَظَايَاتٌ وَعَظَايَاتٌ -

عَفَّتْ رَضٍ عَفًّا وَعَفَّةً وَعَفَافًا وَ
عَفَافَةً وَتَعَفَّتْ - حرام یا غیر مستحسن
کام سے رکتا - پاک دامن ہونا - صفت
نَذْرٌ عَفِيفٌ وَعِفٌّ - جہ - أَعْفَةٌ
أَعْقَاءُ وَعِقُونٌ - صفت مؤنث -
عَفِيفَةٌ وَعِفَّةٌ - جہ - عَفِيفَاتٌ وَ
عَفَائِفٌ وَعِفَاتٌ - عَفَّتْ عَنْ
كَذَا - باز رہنا -

تَعَفَّتْ - بتکلف پاک دامن بننا - تھن کے
بقیہ دودھ کو پینا -

أَعَفَّ - اللَّهُ فَلَا نَأْ - پاک دامن کرنا -
تَعَاثَ - التَّاقَةُ - اونٹنی کو دوسری بار دھونا
- السَّرِيضُ - علاج کرنا -

لَا عَفَّتْ وَاسْتَعَفَّتْ - عَيْنُ الْبَحْمِثِ -
رکتا - الْبَحْمِثُ الْبَحْمِثُ - اونٹ کا مٹی
کے اوپر اوپر کی خفگ گھاس چرنا -
الْعِفَّةُ - مہر - پارسائی - پاک دامنی -
طہارت بدن -

الْعِفَّةُ وَالْعِفَافَةُ - تھن کا بقیہ دودھ -
اسی سے ہے - سَأَلَهُ فَمَا أَعْطَاهُ
إِلَّا عَفَافًا - مانگا تو تھوڑا دیا -

الْعِفَافُ - دوا کہتے ہیں - ”جَاءَ عَلَى
عِفَافٍ كَذَا“ - وہ فلاں وقت آیا -

عَفَّتْ عَفَّتًا رَضٍ، الشَّيْءَ - مڑنا - تڑنا -
- كَلَامُهُ وَفِي كَلَامِهِ - بوجہ لکنت
کے بولنے میں مڑ پڑھا کرنا - صفت



عَفَاتٌ -

الْعَفْتُ - لکنت۔

الْأَعْفَتُ - بایں ہاتھ سے کام کرنے والا بیوقوف۔

عَفْجَه رَضٍ عَفْجًا بِالْعَصَا - لالھی مارنا۔

الْعَفْبُ وَالْعَفْبُجُ وَالْعَفْبُجُ وَالْعَفْبُجُ - آنت ج۔ اَعْفَابُ وَعَفْجَةٌ۔

الْمُعْفَمُ - بیوقوف۔

الْمُعْفَجَةُ وَالْمُعْفَاةُ - لالھی کپڑے دھونے کی موگری عوام میں خباطت کتے ہیں۔

عَفَدَ رَضٍ عَفْدًا وَعَفْدَانًا - دونوں پیر ملا کر کودنا۔

اِعْتَفَلَ - بھوک کے سبب مرنے کے لیے دروازہ بند کرنا اور سوال نہ کرنا۔

عَفَرَا رَضٍ عَفْرًا - فِي التَّرَابِ - مٹی سے لٹھڑنا۔ زمین میں دھنسا دینا۔

الْشَّيْءُ - زمین پر پٹک دینا۔ عَفَرَسَ عَفْرًا وَاسْتَعْفَرَ - خاکسری رنگ ہونا۔ خاک آلود ہونا۔ صفت اَعْفَرُ۔

عَفَرَةٌ - فِي التَّرَابِ - مٹی میں لٹھڑنا۔ زمین میں دھنسا دینا۔ کتے ہیں۔ قَدْ عَفَرُوا وَارْتَعَمَ - جب کوئی شخص ذیل کیا جائے۔ عَفَرًا لِلْحَمَى - گوشت کو ریت پر دھوپ میں خشک کرنا۔

الْشَّيْءُ - سفید کرنا۔ عَفَرَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْفِطَامِ - دودھ چھڑانے کے لیے پستان پر مٹی لگانا۔

اِعْتَفَرَ - الشَّيْءُ - خاک آلود ہونا۔ الثُّوبُ فِي التَّرَابِ - کپڑے کو مٹی میں لٹھڑنا۔ فلاں - قادر ہونا۔

قَوِيَ هُونًا - الوجَل - زمین پر پٹک دینا۔ کودنا۔ كُ الْأَسَدُ - کسی کو شیر

کا بچھاڑ دینا۔

نَعَاثَرُ - التَّيْدُ - نرید کا سفید ہونا۔

تَعَفَّرُوا وَانْعَفَرُوا - فِي التَّرَابِ - مٹی میں لوٹنا۔ الشَّيْءُ - خاک آلود ہونا۔ تَعَفَّرَ الْوَحْشُ - وحشی جانور کا موٹا ہونا۔

الْعَفَرُ وَالْعَفْرُ - مٹی، خاک۔ ج۔ اَعْفَارُ - الْعَفَرُ وَالْعَفْرُ - نرسور یا مطلقاً سور۔

ہمار، سخت موٹا۔ الْعَفْرُ - دوری۔ بے رونق بازار۔ مینے کی ساتویں آٹھویں

نویں رات۔ دلیمر داور چالاک، موٹا ج۔ اَعْفَارُ وَاعْفَارُ۔

رَجُلٌ عَفْرٌ وَعَفْرٌ وَعَفْرٌ وَعَفْرٌ - خبیث مرد۔

الْأَعْفَرُ - ہرن کی ایک قسم جو کم دوڑتا ہے۔ الْعَفْرَةُ - خاکی رنگ۔

الْعَفْرَةُ وَالْعَفْرَةُ - مِنَ الشَّيْءِ - مرغ کی گردن کے بال۔ مِنَ الْإِنْسَانِ - درمیان سر کے بال۔ مِنَ الْأَسَدِ - شیر کا بال۔ عَفْرَةُ الْحَمَى - گرمی کی تیزی۔

الْعَفْرُ - زمانہ، وقت، مہینہ۔ الْعَفْرَةُ - مخطوط لوگ عَفْرَةٌ وَعَفْرَةٌ الْحَمَى - گرمی یا سردی کی تیزی۔

الْعَفْرُ - بغير شکر کا ستو۔ وہ درخت جس سے آگ نکلنے کا کام لیا جائے۔ واحد عَفَارَةٌ۔

الْعَفَارَةُ - جاشت، برائی۔ الْعَفْرِيَّةُ - بڑا سخت مکار، خبیث۔

الْعَفْرِيَّةُ وَالْعَفْرَةُ - مِنَ الْإِنْسَانِ - جب کوئی عصب میں آئے تو کتے ہیں بجاء نَفْسًا عَفْرِيَّةً - جب عصب میں آئے تو کتے ہیں۔

الْعَفْرِ - وہ گوشت جو دھوپ میں ریت پر

الْعَفْرِ - وہ گوشت جو دھوپ میں ریت پر

الْعَفْرِ - وہ گوشت جو دھوپ میں ریت پر

الْعَفْرِ - وہ گوشت جو دھوپ میں ریت پر

الْعَفْرِ - وہ گوشت جو دھوپ میں ریت پر

الْعَفْرِ - وہ گوشت جو دھوپ میں ریت پر

خشک کیا جائے۔ حُبْرٌ عَفِيرٌ - بے

سان کی روٹی۔ وَالْمَحْفُورُ - مٹی میں لٹھڑا ہوا۔ الْعَفِيرُ - وہ عورت جو اپنی پڑوس

کو بدینہ دیتی ہو۔ الْعَفِيرَةُ - گبر ہلاکی گول۔

الْعَفَارُ - جو مونٹ کھجور میں نذر کھجور کا پھول ڈالتا ہے۔

الْحَفْرَاءُ - الْأَعْفَرُ کا مونٹ ج۔ عَفْرُ - سفید زمین۔ مِنَ اللَّيَالِي الْقَسِيرِ - تیرھویں رات۔

الْعَفْرَيْنُ - قوی مرد کا ل۔ چالاک اور کاموں کو کر ڈالنے والا۔ كَيْتُ عَفْرَيْنٍ - عَفْرَيْنُ کا شیر۔ شیر کی جھاڑی کا نام ہے

الْمُعَاوِرُ - ساتھیوں کے ہمراہ چلنے والا تاکہ ان کے بچے ہوئے سے کچھ حاصل کرے

تَعَفَّرَتْ - دیو ہوا۔ شریر ہوا۔ الْعَفْرِيَّةُ - سخت خبیث، چالاک اور کاموں کو کر ڈالنے والا۔ الْإِنْسَانِ - جنات و شیاطین سے ج۔ عَفَارِيَّةُ - مونٹ عَفْرِيَّةُ۔

عَفْرَسَهُ - بچھاڑنا اور غالب ہونا۔ الْعَفْرُسُ وَالْعَفْرِيَّةُ - وَالْعَفْرُسُ وَالْعَفْرِيَّةُ - شیر۔

الْعَفَارِيَّةُ - بَشَرٌ مَرُغٌ - عَفْرُ رَضٍ عَفْرًا - اَبْلَهُ - اپنی بیوی کے ساتھ کھینا۔ الْجَبَالُ بَعِيرَةٌ - اونٹ

وہلے کا اونٹ کو بٹھانا۔ الْعَفْرُ - مم۔ وَالْعَفَارُ - کھایا ہوا

الْعَفْرُ - اَخْرُوطٌ - الْعَفَارَةُ - ٹیڈ۔

عَفْسَهُ رَضٍ عَفْسًا - بچھاڑنا اور روندنا۔ قید کرنا۔ عَنْ حَاجَتِهِ - ضرورت

سے باز رکھنا، روکنا۔ الْمَاشِيَّةُ - جانور کو بغیر چارے کے رکھنا۔ كُ -

زمین پر چڑھا دینا۔ ستمی کے ساتھ زمین

الْعَفْرِ - وہ گوشت جو دھوپ میں ریت پر

الْعَفْرِ - وہ گوشت جو دھوپ میں ریت پر

الْعَفْرِ - وہ گوشت جو دھوپ میں ریت پر

پر کھینچنا۔ ڈیر جلدیہ۔ سرین پر
لات مارنا۔
عافسہ، کشتی رٹنا۔ مزاولت کرنا۔ کتے
میں بکات یُعَافِسُ الْأُمُورَ۔ وہ
کاموں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔
تَعَافَسَ دَاغُنْفَسَ۔ القوم۔ آپس میں
کشتی رٹنا۔
لِنَعْفَسَ۔ فی التُّرَابِ۔ خاک آلود ہونا۔
فِي الْمَاءِ۔ پانی میں غوطہ لگانا۔
الْعِفَافُ۔ فساد۔
الْمُعْفُوسُ۔ قیدی۔
عَفَشَ رَضٍ، عَفَشًا۔ الشَّيْءُ۔ جمع کرنا۔
الْعَفَاشَةُ۔ بے خیر و برکت آدمی۔
الْوَعْفَشُ۔ کمزور بصارت والا۔
عَفَصَهُ رَضٍ، عَفَصًا۔ اکیڑنا۔ موڑنا۔
الرجل کشتی میں غالب آنا۔
عَفَصَ حَقَّةً مِنْهُ۔ اس سے حق
لے لینا۔
عَفَصَ وَاعْفَصَ۔ الْقَارُورَةُ۔ شیشی
میں کارک لگانا۔ اَعْفَصَ الْحَبْرُ۔
روشنائی میں مازو ڈالنا۔
عَفَصَ۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے کو مازو سے
رنگنا۔
عَافَتَهُ مُعَافَصَةً۔ کشتی رٹنا۔
الْعَفْصُ۔ مازو، مازو کا پیڑ۔ درخت، ہوط۔
الْعَفْصُ۔ ناک کا پیڑھا ہونا۔
الْعِفْصُ۔ کسینا۔
الْعَفُوصَةُ۔ کسیداپن۔
الْجَفَافُ۔ کارک، ڈاکٹ شیشی کا سر بند۔
عَفَطَ رَضٍ، عَفَطًا وَعَفِيطًا وَعَفَاطًا۔
الْعَافُ۔ بکری کا رتخ خارج کرنا۔
الْعَافُ۔ بھیڑ کا چھینکنار۔ عَفَطًا،
الْعَافُ۔ ہونٹوں سے بکری کے گوز کی
طرح آواز نکالنا۔ بَعْمَہ۔ بھیڑ کو
ڈانٹنا یا بلانا۔ بھیڑ کی چھینک کی مانند

آواز نکالنا۔ فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ۔
کلمہ نہ کرنا۔
الْعَافُطُ۔ ر۔ وَالْعَفِطُ۔ بہت گوز
مارنے والا۔
الْعَافِطُ۔ مَوْنُ عَافِطٍ۔ بھیڑ۔ کتے میں
"مَا كُنَّا عَافِطَةً نَافِطَةً"۔ اس کے
پاس نہ بھیڑ ہے نہ بکری یعنی کچھ بھی
نہیں ہے۔
الرَّعْفُطُ۔ برف۔
الْعَفَاطُ وَالْعِفَاطُ وَالْعِفْطُ۔ بکلا
لکھت والا۔
عَفَقَ رَضٍ، عَفَقًا۔ الرجل۔ غائب ہونا
بلا ہوا۔ آنا جانا۔ تیز جانا۔ تھوڑا
سونا۔ چھ جاکنا پھر سونا۔ عَفَقَةُ۔
بِالسُّوْطِ۔ کوڑے سے بہت مارنا۔
فِي الْأُمُورِ۔ رکتا۔ الْحَمَلُ
کام کا ادھورا کرنا۔ الشَّيْءُ۔ جمع کرنا۔
عَفَقَ الصَّيْدِ۔ شکار کو ہنکانا۔
الرَّيْحُ الشَّيْءُ۔ پرانگندہ کرنا۔ عَفَقَ
الْحَبْلُ۔ کدھے کا گوز مارنا۔
عَفَقَ۔ لَحْمٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ۔
بکریوں کو جمع کرنا۔
عَافَقَهُ مُعَافَاةً وَعِافَاً۔ قریب دینا
عَافَقَ الْبَنَاتُ الْغَنَمَ۔ بکریوں کو
آگے جاتے بھیڑیے کا نقصان پہنچانا۔
أَعْفَقَ۔ مازو رت کثرت سے آنا جانا۔
لَعَفَقَ۔ بہ۔ پناہ لینا۔
أَعْتَفَقَ۔ الْقَوْمُ بِالسُّبُوفِ۔ تلوار بازی
کرنا۔ الْأَسَدُ فَرِيسَتَهُ شَعِيرًا
شکار کی طرف مائل ہونا۔
لِعَفَقَ۔ فی حاجتہ۔ جلدی کرنا۔
الْعَافَاةُ۔ دھیر۔
رَجُلٌ وَعَفَاقٌ الزَّيَارَةِ۔ بہت ملاقات
کرنے والا۔
الْمُعَفِّقُ۔ پانی پر سے والپس ہونے والا۔

عَفَكَ رَضٍ، عَفَكًا۔ الْكَلَامُ۔ سیدھی طرح
بات نہ کرنا۔ یہودہ کلام کرنا۔
عَفَكَ رَضٍ، عَفَكًا وَعَفَكًا۔ بہت
بیوقوف ہونا۔ صفت اَعْفَكَ وَ
عَفَكَ دَعْفِيكَ مَوْنُ عَفَكًا
ج۔ عَفَكَ الْأَعْفَكَ۔ بائیں ہاتھ سے
کام کرنے والا۔
عَفَنَ رَضٍ، عَفَنًا وَعَفَنَ۔ اللَّحْمُ۔
گوشت کو بدبودار کرنا۔ عَفَنَ فِي
الْجَبَلِ۔ پہاڑ پر چڑھنا۔
عَفَنَ رَضٍ، عَفَنًا وَعَفُونَةً وَتَعَفَنَ
الشَّيْءُ۔ تری کی وجہ سے خراب ہونا۔
اللَّحْمُ۔ گوشت کا بدبودار ہونا۔
صفت عَفَنَ وَمَعْفُونٌ وَمُعَفَّنٌ
وَمُتَعَفِّنٌ۔
أَعَفَنَ۔ الشَّيْءُ۔ بدبودار پانا۔
عَفَا يَعْفُو عَفْوًا۔ عَنْهُ، لَهُ ذَنْبُهُ
وَعَفَا عَنْ ذَنْبِهِ۔ معاف کرنا۔
نزارہ دینا۔ اللَّهُ عَنْهُ۔ گناہوں کو
معاف کرنا۔ عَنِ الشَّيْءِ۔ رکتا۔
عَنِ الْحَقِّ ساقط کرنا۔ الشَّيْءُ۔
زیادہ کرنا۔ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ بڑھ
جانا۔ الصُّوفُ۔ (ون کاٹنا)۔
فُلَانًا، کسی کے پاس طلب معروف
کے لیے جانا۔ عَفَقَتِ الْأَرْضُ۔ زمین
کا سبزی سے ڈھک جانا۔ الشَّيْءُ۔
نیا دہ اور لمبی ہونا۔ عَفَقَتِ الرِّيحُ
الْأَثَرُ أَوِ الْمَنْزِلُ۔ مٹا دینا۔ ر۔
عَفَا عَفْوًا وَعَفَاءً وَعَفْوًا)۔
الْأَثَرُ أَوِ الْمَنْزِلُ۔ مٹنا۔ أَتَوَخَّاهُ
ہلاک ہونا۔ مرنا۔
عَفَا يَعْفُو عَفْوًا وَعَفِي يَعْفِي عَفِيًّا۔
الشَّعْرُ۔ بالوں کو چھوڑ دینا تاکہ وہ
لمبے اور گھنے ہو جائیں۔ الشَّعْرُ۔ بال
لمبے اور زیادہ ہونا۔





عَفَى تَعْفِيَةً. مٹانا۔ عَفَّتِ الرِّيحُ
الْمَنْزِلَ. مٹا دینا۔ عَلَى مَا كَانَ
مِنْهُ۔ بگاڑنے کے بعد درست کرنا۔
عَفَّتِ الْجَنَّةُ مَا جَبَّهَا۔ ہلاک
کرنا۔

عَا فِي مُعَانَاةٍ وَعِقَاءٍ وَعَافِيَةٍ۔
اللَّهُ فَلَئِنَّا صَحَّتْ دِينَا۔ بِلَا اور
برائی سے بچانا۔

اعفَ عَفَاءً۔ اللہ فُلاَنًا عافیت
 دینا۔ الشَّعْرُ بالوں کو بڑھنے کے لیے
 جھوڑ دینا۔ الرَّجُلُ بہت مالدار ہونا۔
 تَرَامُلُ مال کو خرچ کر دینا۔ ذَا صِنِّ الْأُمْرِ
 بڑی کر دینا۔ نَزِدَ احْقَاقُہ۔ حق
 کو پورے طور پر ادا کر دینا۔ الرَّجُلُ
 دینا۔ الْمَرِیضُ بیمار کا تندرست
 ہونا۔

تَعَفُّی تَعَقُّیاً۔ مٹنا اور مضمحل ہونا۔
تَعَا فِی تَعَا فِیاً۔ عافیت پانا۔ الشیء۔
محسوس و دنیا۔

اَسْتَغْفِرُ اِعْتِفَاءً۔ فَلَا نَأْسَ كَسَى كَے پاس
طلب معروف کے لیے جانا۔ اِعْتَفْتُ
وَاَسْتَعْفَنْتُ الْاِیْلُ الْاِیْبِیْسُ۔
اوپر اوپر سے خشک گھاس کا چہرنا۔
اِسْتَعْفَى الرَّجُلُ مُكَلِّفَهُ۔ اسْتَعْفَى
دینا۔ معافی طلب کرنا۔ کہتے ہیں۔
اِسْتَعْفَى مِنَ الْخُرُوجِ قَاعًا عَفَاً۔
نکلنے سے معافی مانگنا اور معاف کر
دینا۔

العَفَاءُ مِثْلُ بَارِشٍ أَكْهَرُ مِنْ بَرَادٍ -
بِلَاكَةٍ أَكْهَرُ مِنْ بَرَادٍ -

العفاء زیادہ لمبے بال بستر مرغ کے پر۔
اونٹ کے بال۔

العَفْوُ۔ عمدہ چیز۔ فضل و معروت۔ مِّنَ
الْمَالِ۔ خرچ سے زیادہ مال جس کا
وینا دشوار نہ ہو۔ زمین جس میں کوئی

نشان نہ ہو۔
 الْعَفْوَ وَالْعَفْوُ الْعَفْوُ الْعَفْوُ كَذَلِكَ
 كَافٍ ج. عَنَّا وَعَفُوْا
 الْعَفْوُ دیت گدھے کا مادہ ہے ج.
 عَفُوْا

العَفْوَةُ وَالْعَفْوَةُ وَالْعَفْوَةُ - باندی کا
جہانگ - عَفْوَةُ الشَّيْءِ چیز کا غاص
عَفْوَةُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ - عمدہ
کھانا پانی - الْعَفْوَةُ وَالْعَفْوَةُ - مرد
کے سر کے بال۔

العِفَاوَةُ شربے کا اچھا حصہ جو کسی معزز کو دیا جائے۔

العَفَاوَةُ - دَبِّكَ كَانِيَا شَوْرِبِي -
العَفَاوَةُ وَالْعَفَاوَةُ وَالْعَفَاوَةُ - بَانِي
كَاجِهَاك -

العَفْوُ: معاف کرنے والا۔ بہت معاف کرنے والا۔

العافیؑ نا بخشنے والا۔ درگزر کرنے والا۔
لمبے بال والا۔ ٹٹنے والا۔ جہر عقیقہ۔

دیگ کا پچلا شور بہ گھاس پانی طلب
کرنے والا۔ گھاٹ پر اترنے والا۔

عُفَاةٌ وَعَفِيٌّ وَعَافِيَةٌ کہتے ہیں

”كَثُرَتْ عَلَى الْكَرِيمِ عَاقِبَتُهُ“
 کریم پر بخشش کے طلب کرنے والے

بہت ہوئے۔
العافیۃ کا معنی یہ ہے کہ عافی کا مصدر یا اسم کامل صحت

بر طالب رزق - جز غایات و عوایف -

المعنى - ما سألني جوستون كطالب
عنه

عَقَبَتِ الْوَيْحُ الْمُنْ - بارش
رسانا۔ اللہ! کنوس سے بھرا ہوا

ڈول نکالنا دے عقوقاً و معقلاً

الْوَلَدُ وَالِدًا - والد کی نافرمانی کرنا۔
اور شفقت نہ کرنا اور استخفاف کرنا۔
صفت عَقٌّ وَعَاقٌ ج۔ عَقَقَهُ
وَأَعَقَّهُ ذَا عَقٍّ وَعُقِّقَ وَعُقِّقَ
عَقٌّ رَسَ عَقَقًا۔ چٹا۔

عَقَّتْ رَضِ، عَقَقَاوَعَقَقَاوَعَقَقَا۔
 الفرس۔ گھوڑی کا حاملہ ہونا۔ صفت
 عَقُوق۔

عَاقِ مُعَاقِلَہ۔ آباہ۔ مخالفت کرنا۔
 اَعِی۔ اَلْکُرْم۔ انگور کی پیل کی جڑوں سے

شاخ نکلتا۔ فلاں۔ نافرمانی کرنا۔
أَعْقَبَ الْفُرسُ۔ گھوڑی کا حاملہ ہونا۔

صفت - عَقُوقُ -
 اَلْعُقَّ - الوَادِي - وادی کا گہرا ہوا ہونا -
 - اَلْغُبَارُ - غبار بلند ہونا - اَلْعُقْدَةُ -

گرہ کا مضبوط ہونا۔ البرق۔ بجلی کا
بادل میں چھپ جانا۔ (ر۔ و ا ع ت ق)

پھٹنا۔ اِعْتَقَ السَّيْفَ تلوار سونٹنا۔
- الْمُعْتَذِرُ۔ عذر کے بیان میں

مبالغہ کرنا۔
الْعَاقِيُ اسم فاعل ج. عَاقُونَ و

عَقَقَهُ، أَعَقَّهُ مُنْتُ عَاقَهُ
ج. عَوَاقٍ وَعَاقَاتٍ -

العقَّ والعَصَّةُ - كَمَا كَرَّهَا.
العَقُّ وَالْمُقَاتُّ - مِنَ السَّاءِ - كَرَّوْا

العقۃ نوزائیدہ بچے کے بال۔ ج۔

عَقُوقُ - مِنَ النَّحِيلِ - حَامِلُ كَهْوَطِي

عِقَانُ
العقبة

وادی اور ہریانی بننے کی جگہ جس کو
سحاب نے وسیع کر دیا ہو۔ چہ اَعْقَلُہ

نوزائیدہ بچے کے بال - ملک عرب میں

چند مقامات کے نام۔
 الْعَقِيقَةُ: نوزائیدہ بچے کے بال، توشہ دار
 نہر، وہ بکرا یا بکری جو پیدائش کے
 ساتویں دن بعد بال مونڈتے وقت
 ذبح کی جائے، تیر جس کو جاہلی زمانے
 میں سہمۃ الاخذار کہتے تھے اور
 خون کے بدلے کا فیصلہ کرنے کے لیے
 آسمان کی طرف پھینکتے تھے، اگر خون میں
 لہر پت واپس آتا تو قصاص لیتے،
 اور اگر صاف آتا تو دیت پر مصالحت
 کر لیتے تھے۔
 عِقَانُ الْكُرْمِ وَالْخَيْلِ: وہ شاخیں
 جو انگور کی پیل یا کھجور کی جھڑ سے
 نکلیں۔
 عَقَبَ رَمْلًا، عَقَبًا: ایڑ مارنا۔ عَقَبَ
 الْقَوْمَ أَوْ الشَّهْمَ، پیٹھا پیٹنا۔
 (عَقَبًا وَعُقُوبًا وَعَاقِبَةً) الرَّجُلُ
 اَوْ مَكَانَ الرَّجُلِ: پیچھے آنا، جاٹھیں
 ہونا۔ کہتے ہیں "عَقَبَ الشَّيْءُ سِبَابِي
 کے بعد سپیدی آنا۔
 عَقَبَ عَقَبًا: ایڑی میں در۔ ہونا۔
 عَقَبَهُ: پیچھے آنا، پیچھے لانا۔ عَقَبَ
 الصَّلَاةَ: نماز پوری کر لینے کے بعد
 دعا وغیرہ کے لیے بیٹھنا۔ کہتے ہیں۔
 عَقَبَ الشَّيْبُ: سیاہی کے بعد
 سپیدی آئی۔ فِي الْأَمْرِ: کسی چیز کے
 طلب کے لیے کوشش کرنا۔ اور آدرو
 رفت کرنا۔ الْحَاكِمُ عَلَى الْحُكْمِ
 سَلَفِهِ: حاکم کا اپنے سلف کے
 خلاف فیصلہ کرنا۔ عَلَيْهِ: بدنام کرنا
 اور غلطیوں کو بیان کرنا۔
 عَاقِبَهُ مُعَاقِبَةً: پیچھے آنا۔ عَاقِبَهُ فِي
 التَّوَحُّدِ: نوبت بہ نوبت سوار
 ہونا۔
 عَاقِبَهُ عِقَابًا وَمُعَاقِبَةً: بدذنبہ و

عَلَى ذَنْبِهِ: مواخذہ کرنا۔ سزا دینا۔
 اسْمُ الْعُقُوبَةِ:
 أَعْقَبَهُ: جانچیں ہونا۔ اچھا بدلہ دینا۔ کہتے
 ہیں: عَاقَبْتُ الرَّجُلَ: بہترین بدلہ
 دینا۔ عَاقِبَتُهُ: برابر بدلہ دینا۔
 عَاقِبَهُ: اچھا بدلہ۔ عَقُوبَةُ: بُرَا
 بدلہ۔ أَعْقَبَهُ فِي التَّوَحُّدِ: نوبت
 بہ نوبت سوار کرنا۔ أَعْقَبَ فَلَانٌ
 مرنا اور اولاد چھوڑ جانا۔ الْأَمْرُ:
 اچھا انجام ہونا۔ الرَّجُلُ: برائی سے
 بھلائی کی طرف لوٹنا۔ أَعْقَبَتِ
 الْأَرْضُ: زمین کا چرے جانے کے
 بعد پھر سرسبز ہونا۔ کہتے ہیں: أَعْقَبَتِ
 عَرَبٌ دُولًا: اس کی عزت و ذلت
 سے بدل گئی۔
 تَعَقَّبَهُ: تلاش کرنا۔ عیوب تلاش کرنا۔
 پیروی کرنا۔ جرم پر گرفت کرنا۔ تَعَقَّبَ
 عَنْ الْخَيْرِ: شک کی وجہ سے خیر
 کو دوسری مرتبہ پوچھنا۔ تَعَقَّبَ مِنْ
 أَمْرٍ: نادام ہونا۔
 تَعَاقَبَ: التَّجْلَانِ أَوِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ تَعَاقَبًا
 عَلَى التَّوَحُّدِ: نوبت بہ نوبت سوار
 ہونا۔ الْقَوْمُ فِي الشَّيْءِ أَوِ الْأَمْرِ:
 باری باری کرنا۔ تَعَاقَبُوا عَلَى فَلَانٍ
 بِالْعُقُوبِ: مارنے میں ایک دوسرے
 کی مدد کرنا۔
 اُعْتَقَبَ: الْبَائِعُ السَّلْعَةَ: قیمت پر
 قبضہ کرنے کے لیے سامان کو روک لینا
 - الرَّجُلُ: قید کرنا۔ مِنْ كَذَا
 نَدَا أَمَةً: انجام میں ندامت اٹھانا۔
 الْقَوْمُ عَلَيْهِ: مدد کرنا۔
 اسْتَعَقَبَهُ: عیوب و نقائص کو تلاش
 کرنا۔
 الْعَقَبُ: ہر پیچھے آنے والی چیز۔

الْعُقْبُ وَالْعُقْبُ: ایڑی، پیٹا، پوتا۔ ج۔
 أَعْقَابُ - أَعْقَابُ الْأُمُور: انجام
 کار۔ کہتے ہیں: جَاءَ عَقِبَهُ وَيَعْقِبُهُ:
 جاٹھیں ہوا۔ رَجَعَ عَلَى عَقِبِهِ:
 جلدی سے اسی راہ سے واپس گیا۔
 جس سے آیا تھا۔ وَطَى عَقِبَهُ وَ
 يَعْقِبُهُ: قدم پر چلا۔ سَافَرَ عَلَى
 عَقِبِ الشَّيْءِ: مینے کے آخر میں سفر
 کیا۔
 الْعُقْبُ وَالْعُقْبُ: انجام، نتیجہ۔ ج۔
 أَعْقَابُ:
 الْعُقْبُ: وہ پیٹھا جس سے تانت بنائی
 جاتی ہے۔ ج۔ أَعْقَابُ
 الْعُقْبَةُ: نوبت۔ بدل۔ کہتے ہیں: تَبَتَّ
 عَقِبَتُكَ: تیری باری پوری ہوگئی۔
 أَخَذْتُ مِنْ أَسِيرِي عَقِبَةً:
 میں نے قیدی سے بدلہ لے لیا۔ الْعُقْبَةُ
 مِنَ الْجَمَالِ أَثَرُ حُسْنِ الْعُقْبَةِ:
 شیرینی جو کھانے بعد کھائی جائے۔
 شوربے کا باقی حصہ جو ہانڈی والے کو
 چھوڑا جائے۔ رات دن، کیونکہ یہ
 باری باری آتے ہیں۔ کہتے ہیں: هُوَ
 عَقِبَةُ بَنِي فَلَانٍ: وہ فلاں کا
 آخری ہے۔ ج۔ عَقِبُ - أَوْ عَقْبَةُ
 سُور:
 الْعُقْبَةُ: أَثَرُ حُسْنِ
 الْعُقْبَةُ: دشوار گزار گھاٹی۔ پہاڑ کا
 دشوار راستہ۔ ج۔ عِقَابُ وَ
 عَقَبَاتُ:
 الْعُقْبِي: کام کا بدلہ، ہر چیز کا آخر، آخرت۔
 الْعُقُوبَةُ: الْعِقَابُ وَالْمُعَاقِبَةُ: بدی
 کا بدلہ سزا۔
 الْعُقَابُ: ایک شکاری پرندہ۔ ج۔ عِقَابُ
 وَأَعْقَبُ: جج۔ عَقَابِيْنُ،
 الْعُقَابُ: ایک ستارہ۔ حوض کی



جانب پانی کی نالی۔ ٹیلہ، وہ پتھر جس پر ساقی کھڑا ہوتا ہے۔

العَقِيبُ۔ پیرو، پیچھے آنے والا۔ کہتے ہیں ”هُوَ عَقِيبُهُ“ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔

العُقُوبُ۔ بھلے کاموں کی پیروی کرنے والا۔ اچھا جانشین۔

العاقِبُ۔ فاعل، اچھا جانشین۔

العاقِبَةُ۔ مؤنث عاقب۔ نسل، ہر چیز کا آخر۔ اچھا بدلہ۔ جہ۔ عَوَاقِبُ۔

العُقْبَانُ۔ عاقبت۔

العُقَيْبُ۔ ایک شکاری پرند جو خرگوش اور چوہے کا شکار کرتا ہے۔ اس کو مُرْزَةٌ بھی کہتے ہیں۔

المُعْقِبُ۔ لانگے میں ماہر۔ اورھنی، بال۔

المُعْقَابُ۔ جو عورت ایک بار لڑکا، اور دوسری بار لڑکی جننے۔ وہ جگہ جہاں

خشک انگور رکھا جائے۔

المُعَاقِبُ۔ فاعل۔ بدلہ لینے والا۔

المُعَقَّبَاتُ۔ دن رات کے فرشتے، وہ

تسبیحات جو نوبت بہ نوبت پڑھی

جائیں۔

المُعَقُّوبُ۔ نہ چکور۔ جہ۔ بَعَاقِبُ۔

بیاض زائد ہے۔

العُقْبُولُ وَالْعُقْبُولَةُ۔ سختی، بیماری یا

عداوت کا بقیہ حصہ۔ بخار کے بعد

ہونٹوں کی پھنسیاں۔ جہ۔ عَقَابِيْلُ۔

عَقْدَ رَضٍ، عَقْدًا۔ الْجَبَلُ۔ گرہ لگانا۔

الْبَيْعُ اَوِ الْبَيْعَيْنِ۔ بیع یا قسم کو

پکا کرنا۔ الْحَاسِبُ۔ حساب لگانا۔

كَأَعْلَى الشَّيْءِ۔ معاہدہ کرنا۔ لہٰذا

الشَّيْءُ۔ ضامن ہونا۔ الْخَيْطُ۔ دھاگے

میں گرہ لگانا۔ الْبِنَاءُ مَعَارُكَ مَحْرَابٍ

بنانا۔ الْبِنَاءُ بِالْحِصْنِ۔ عمارت کو

چونے سے مضبوط کرنا۔ الزَّهْرُ۔

پھول کے اجزاء کا پھل بن جانا۔

الْعَسَلُ وَنَحْوُهُ۔ شہد کا گڑھا ہونا

کہتے ہیں ”عَقْدًا نَاصِيئَةً“ غصہ

ہوا اور بُرائی کے لیے تیار ہوا۔

عَقْدَ عُنْقَهُ الْيَلِيَّ۔ پناہ لینا۔

عَقْدَ لَهُ الْيَا سَلَةَ فِي قَوْمِهِ۔

قوم کا رئیس بنا دینا۔ عَقْدَ لَهُ عَلَى

الْجَنِيْشِ، شُكْرًا سَرْدًا بِنَادِيَا۔

عَقْدًا دَسَ عَقْدًا۔ گرہ دار زبان والا

ہونا۔ اللِّسَانُ۔ زبان کا رکنا صفت

أَعْقَدُ وَعَقْدٌ۔

عَقْدٌ۔ الْبَيْتُ۔ محراب بنانا۔ الْبَيْمَيْنِ۔

قسم کو پختہ کرنا۔ الْجَبَلُ۔ رسی میں

خوب گرہ لگانا۔ الْكَلَامُ۔ بات کو

مہم کرنا۔ وَأَعْقَدَ الدِّبْسُ

وَنَحْوُهُ۔ شیرہ کو جوش دے کر گڑھا

کرنا۔

عَاقِدَةُ مُعَاقِدَةٍ۔ معاہدہ کرنا۔

تَعَقَّدَ الدِّبْسُ۔ شیرہ کا گڑھا ہونا۔

الزَّوْفُلُ۔ ریت کا تہ بہ تہ ہونا۔

السَّعَابُ۔ بادل کا محراب کی مانند

ہونا۔ الْأَصْرُ۔ دشوار ہونا۔ الْإِخَاءُ

مضبوط ہونا۔

الْعَقْدُ۔ گرہ لگانا۔ الْأَمْرُ لِفُلَانٍ۔

فالح ہونا۔ الدِّبْسُ۔ شیرہ کا

گڑھا ہونا۔ الزَّهْرُ۔ پھول کے اجزاء

کا سمٹ کر پھل بن جانا۔

تَعَاقَدَ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کے ساتھ

معاہدہ کرنا۔

أَعْتَقَدَ الْمَالَ۔ جمع کرنا۔ الْأَمْرُ۔

نصرت لینا کرنا۔ نہایت پختہ یقین رکھنا۔

دین بنانا۔ الشَّيْءُ۔ سمٹت ہونا۔ اسی

سے ہے ”أَعْتَقَدَ النَّوْاسِي“ گھٹل

سمٹت پڑ گئی۔ الْإِخَاءُ بَيْنَهُمَا۔ سچی

محبت اور مضبوط محبت ہونا۔ باندھنا۔

الْدُّرُودُ نَحْوُهُ۔ موتی وغیرہ کے

بار بنانا۔

الْعَقْدُ۔ محراب۔ جہ۔ أَعْقَادٌ وَعُقُودٌ۔

اعداد کے عقود دھائیاں کھلاتی ہیں۔

جیسے دس، بیس، تیس، نوے تک۔

الْعَقْدُ۔ بار۔ جہ۔ عُقُودٌ۔

الْعَقْدُ وَالْعَقْدُ۔ ریت کا تودہ۔ واحد

الْعَقْدَةُ وَالْعَقْدَةُ۔

الْعَقْدَةُ۔ گرہ۔ جائداد، شہر کی حکومت۔

حاکموں کی بیعت۔ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہر

شے کی مضبوطی، اتنی مقدار جو آدمی کو

کافی ہو۔ بہت سارے درختوں والا

مقام جو کسی چیز کو روک لے اور باندھ

لے، کہتے ہیں ”تَحَلَّلْتُ عَقْدًا“

اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔

الْعَاقِدُ۔ فاعل۔ جہ۔ عَقْدَةٌ۔ کہتے ہیں۔

”جَاءَ عَاقِدًا عُنُقَهُ“ غرور سے

گردن موڑتا ہوا آیا۔

الْعَاقِدَةُ۔ مؤنث عاقد۔ جہ۔ عَوَاقِدُ

وَعَاقِدَاتُ۔ العَاقِدَاتُ۔

جادوگر نیاں۔

الْعَقْدَةُ۔ زبان کی جڑ۔

الْعَقَادُ۔ بہت عقد کرنے والا۔ دھاگہ اور

گھنٹی کا بنانے والا۔ اور بچنے والا۔

الْعَقَادَةُ۔ دھاگہ، گھنٹی بنانے کا پیشہ۔

الْعَقِيدُ۔ معاہدہ کرنے والا۔ مِنْ

الدِّبْسِ۔ گڑھا شیرہ۔ کہتے ہیں۔

”فَلَانٌ عَقِيدُ الْكُرْمِ اَوِ الْكُومِ“

فلان شخص طبعا کریم یا نسیم ہے۔

الْعَقِيدَةُ۔ جس پر پختہ یقین کیا جائے۔

جس کو انسان دین بنائے اور اس پر

اعتقاد رکھے۔ جہ۔ عَقَائِدُ۔

الْعَقْدُ۔ وہ شخص جس کی زبان میں گرہ ہو

جس میں گرہیں ہوں۔ کتایا بھیڑ یا جس کی

دُم مڑی ہوئی ہو۔ مؤنث عَقْدَاءُ۔

ج۔ عَقْدٌ۔

العُقُودُ والعُقَادُ۔ مِنَ الْعَيْبِ وَ نَحْوِهِ۔ گچھا۔ ج۔ عَنَاقِيْدٌ۔

المَعْقِدُ۔ گرہ بند ہونے کی جگہ۔ جوڑ۔ کہتے ہیں۔ هُوَ يَتَّيِّقُ مَقْعِدُ الْإِزَارَةِ وہ مرتبہ کے لحاظ سے مجھ سے قریب ہے۔ ج۔ مَعَاقِدُ۔ المَعَاقِدُ۔ وہ منزل جہاں بار بار لوٹ کر آئیں۔

المَعْقَدُ۔ بچوں کے گلے میں ڈالنے کا تھوید وغیرہ کی لڑی۔

المُعَقَّدُ۔ فا۔ جادوگر۔

المُعْتَقَدُ۔ اعتقاد۔

عَقْرَةٌ رَضٍ، عَقْرًا۔ زخمی کرنا۔ ذبح کرنا۔

عَقْرًا لِإِبِلٍ۔ کوئیں کاٹ دینا۔

عَقْرِيَّةٌ۔ چلنے سے روک دینا۔

بِالصَّيْدِ۔ شکار کے پیچھے لگنا۔

عَقَرْتُ رَضٍ، عَقْرًا وَعَقْرًا وَعَقْرًا وَ

عَقَرْتُ رَكَّ، عَقْرًا وَعَقْرًا وَ

عَقْرًا وَ عَقَرْتُ الْمَرْأَةَ أَوْ

النَّاقَةَ۔ بانجھ ہونا۔ صفت

العَاقِرُ۔

عَقَرْتُكَ، عَقْرًا۔ الامور بے نتیجہ ہونا۔

عَقَرْتُكَ، عَقْرًا۔ دہشت زدہ ہونا۔

جیران ہونا۔ کانپنا۔

عَقْرٌ۔ الإِیْل۔ اونٹ کو بہت زخمی کرنا۔

عَاقِرٌ مَعَاقِرَةٌ۔ الشَّيْءُ۔ لازم پکڑنا۔

ہیشگی کرنا۔ الخمر شراب پینے

میں مداومت کرنا۔ ک۔ گالی دینا۔

بُرْہا بھلا کہنا، بھوکرنا۔ اونٹ ذبح

کرنے میں فخر کرنا۔

أَعْقَرَهُ۔ دہشت زدہ کرنا۔ أَعْقَرَا لِلَّهِ

الْمَرْأَةَ۔ عورت کو بانجھ کر دینا۔

تَعَقَّرَ۔ انْبَاتٌ۔ نباتات کا لمبی ہونا۔

شَحْمُ النَّاقَةِ۔ چربی کا گٹھا ہوا

ہونا۔ الرجل۔ جائداد کا زیادہ ہونا۔

۔ الْعَيْبُ۔ لگاتار بارش برساتار۔

وَأَعْتَقَرُوا نَعْفَرَ مَهْلًا لِدَا ابْنَةِ

مِنْ الرَّحْلِ أَوِ الشَّرْحِ۔ جانور کی

پیٹھ کا کجاوے یا زین سے زخمی ہونا

لَا نَعْقَرْتُ قَدَائِحُ الْبَعِيدِ۔ کوئیں

کاٹ جانا۔

تَعَاقَرٌ۔ الرَّاغِيَانِ۔ اونٹ کے ذبح میں

مقابلہ کرنا۔

العَقْرُ گھر کا درمیانی حصہ۔ محلہ، قوم، بلند

عمارت، اترنے کی جگہ۔ د چیزوں کے

درمیان کی کشادگی۔

العَقْرُ۔ ہر قوم کے اترنے کی جگہ۔ حوض

کا پچھلا حصہ۔ گھر کا درمیانی حصہ۔ گھر

میں عمدہ جگہ۔ بہترین گھاس۔ قصبہ

کا بہترین شعر۔ محل۔ ج۔ أَعْقَارٌ۔

بَصْنَةُ الْعَقْرِ۔ مرغی کا پہلا انڈا۔

العَقْرُ۔ بانجھ۔ والعَقْرُ بڑی

آگ۔

العَقْرَةُ وَالْعُقْرَةُ وَالْعَقَارَةُ۔ بانجھ

العُقْرَاءُ۔ موتِ اَعْقَرُ۔ اونچا ٹیلہ۔

العُقَارُ۔ سامان خانہ، عمدہ مال، عمدہ

گھاس، شراب۔

إِمْرَأَةٌ عَقْرَةٌ۔ رحم کی بیماری والی عورت

العَقَارُ۔ بہت زخمی کرنے والا۔ درخت۔

جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والا۔ دوا۔

ج۔ عَقَاقِيْمُ۔

العَقَاقِيْمُ۔ مبالغہ کا صیغہ، درخت۔

العَقْوَرُ۔ کاٹنے والا جانور۔ ج۔ عَقْرٌ۔

العَقْرَةُ وَالْعَاقُوْرُ وَالْيَعْقَرُ وَالْعَقَارُ

وَالْمَعْقَرُ۔ مِنَ السُّرُوجِ۔ پیٹ

کو زخمی کر دینے والی زین۔

العَقِيْرُ۔ زخمی، دہشت زدہ۔ ج۔ عَقْرِي

رَجُلٌ عَقِيْرٌ۔ بے اولاد۔

العَقِيْرَةُ۔ زخمی شکار۔ کٹی ہوئی پنڈلی۔

گانے۔ رونے یا پڑھنے والے کی آواز۔

کہتے ہیں۔ رَفَعَ عَقِيْرَتَهُ۔ آواز بلند کی۔

نَحْلَةً عَقِيْرَةً۔ کٹے ہوئے سرے کا

کھجور کا درخت۔

العَاقِرُ۔ بانجھ عورت۔ ج۔ عَقْوَرٌ۔ و

عَوَاقِرُ رَجُلٌ عَاقِرٌ۔ بے اولاد مرد

ج۔ عَقْرٌ۔

الْأَعْقَرُ۔ وہ اونٹ جس کے دانت ٹوٹ گئے

ہوں۔ مَوْنَةُ عَقْرَاءُ۔ ج۔ عَقْرٌ۔

العَقْرِي۔ جائداد۔

المَعْقَرُ۔ بہت جائداد والا۔

أَرْضٌ مَعْقَرَةٌ۔ بہت بچھوڑ والی سر

زمین۔

العَقْرَبُ۔ بچھوڑ (روادہ)، اکثر مونت آتا

ہے۔ أُمُّ عَرِيْطٍ، أُمُّ سَاهِرَةٍ کِنِيت

ہے۔ کہتے ہیں کہ نر کو عَقْرِيَانُ کہتے

ہیں اور مادہ کو عَقْرِيَّةٌ۔ ج۔

عَقَارِبُ۔ العَقْرَبُ۔ آسان کا

ایک بُرج۔ العَقَارِبُ۔ سختیاں،

چغلیاں۔ کہتے ہیں دَبَّتْ عَقَارِبُهُ،

دَبَّتْ مِنْهُ عَقَارِبُ السَّعَايَةِ وَ

إِنَّهُ لَتَدِبُّ عَقَارِبُهُ۔ وہ لوگوں

کی بے آبروی کرتا ہے۔ عَشِيْشٌ ذُو

عَقَارِبُ۔ سختی اور تنگی کی زندگی۔

عَقَارِبُ الشَّتَاءِ۔ ٹھنڈ کی شدت۔

عَقْرَبُ السَّاعَةِ۔ گھڑی کی سوئی۔

العَقْرَبَاءُ۔ مادہ بچھوڑ۔

أَرْضٌ مَعْقَرِيَّةٌ۔ بہت بچھوڑ والی

زمین۔

المَعْقَرُ۔ موڑا ہوا، پڑھا، گٹھا ہوا۔

مضبوط جسم، کامل مددگار۔

العَقْرَطُ وَالْعَقْرَطُ۔ مادہ ہاتھی

عَقَشَ دَنَ، عَقَشًا۔ العُودَ۔ لکڑی کو

موڑنا۔ المَالُ۔ جمع کرنا۔

عَقَصَ رَضٍ، عَقَصًا۔ الشَّعْرَ۔ بالوں

کی چوٹی بنانا یا گوندھنا۔ الْمَرْأَةُ





شَعْرَهَا - بالوں کا جوڑا باندھنا۔
عَقِصَ دَسْ - عَقَصًا - التَّيْسُ - مینڈھے
کا پیچھے کو مڑے سینگوں والا ہونا۔
الرَّجُلُ - بخیل ہونا۔ بدخلق ہونا۔ مڑی
ہوئی انگلی والا ہونا۔
العَقِصُ - بخیل۔ بدخو۔ وہ جمع شدہ ریت
جس میں راستہ نہ ہو۔
العُقَصَةُ - مِنَ الْقُرْنِ وَغَيْرِهِ۔
سینگ وغیرہ کی گرہ۔ ج۔ عَقَصُ۔
العُقَصَةُ - چوٹی۔ ج۔ عَقَائِصُ وَعَقَاصُ
العُقَيْصَةُ - چوٹی۔ ج۔ عَقَائِصُ وَ
عَقَاصُ۔
العَقَاصُ - موباف۔ ج۔ عَقَصُ۔
الْأَعْقَصُ - مڑی ہوئی انگلیوں والا جس
کے دو دانت اندر کو ہوں۔ بخیل۔
مِنَ التَّيْسِ - مینڈھا۔ جس کے
سینگ پیچھے کو مڑے ہوئے ہوں۔
مُؤْنَتٌ عَقَصَاءُ - ج۔ عَقَصُ۔
الْمُعَقَصُ - ٹیڑھا تیر۔ ج۔ مَعَاقِصُ۔
الْمُعَقَاصُ - مڑے سینگ کی بھیڑ، بکری۔
عَقَعَقَ عَقَقَةً - الطَّائِرُ بِصَوْتِهِ۔
گٹگری کی۔
الْحَقَقُ - کوڑے کی صورت کا ایک پرند۔
کوڑا۔ عام لوگ اسے قَحَقُّ کہتے ہیں۔
اہل عرب اس سے بدفالی لیتے ہیں۔
عَقَقَتْ (رَضَ) عَقَقًا وَعَقَقَتْ - الْعُودَ
وَنَحْوَهُ فَتَحَقَّقَتْ وَالْحَقَقَتْ -
کنارے سے موڑنا اور ٹیڑھا کرنا۔
اور اس کا مڑ جانا اور ٹیڑھا ہو جانا۔
صفت اَعَقَقْتُ وَمَعَقُوفٌ۔
الْحَقَفَاءُ - مُؤْنَتٌ اَعَقَقَتْ - وہ لڑی یا
لوا جس کا کنارہ کچ ہو۔ مڑے سینگ
کی بکری۔ ج۔ عَقَقْتُ - (رَضَ) وَالْعَقِيفَاءُ
ایک گھاس جس سے بکریاں مر
جاتی ہیں۔

الْعُقُوفُ - مِنْ ضُرُوحِ الْبَقَرَةِ - گائے
کا تھن جس سے دوہتے وقت دودھ
کی دھار سیدھی نہ نکلے۔
الْحَقَافُ - ایک بیماری جس سے بکریوں کی
ٹانگیں ٹیڑھی ہوجاتی ہیں۔ ایسی بکری کو
عَاقِفَ کہتے ہیں۔ ج۔ عَوَاقِفُ۔
الْعُقَافَةُ - وہ لڑی جس کی ایک جانب
کچ ہو۔ شُوكَةُ عَقِيفَةٍ - مڑا ہوا
کاٹنا۔
الْمُعَقُوفُ - مڑا ہوا۔ وہ جانور جس کو
عقاف کی بیماری ہو۔ شَيْخٌ مَحْقُوفٌ -
ٹیڑھی کمر والا بوڑھا۔
عَقَلَ (رَضَ) عَقْلًا - السَّوَاءُ
بَطْنُهُ - دوا کا قبض کر دینا۔
الْبَعِيرُ - ٹانگ اور ران ملا کر رسی
سے باندھنا۔ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا -
کنگھا کرنا۔ الْقَتِيلُ - مقتول کی دیت
دینا۔ عَنْ فُلَانٍ - کسی کی طرف سے
ناوان یا دیت دینا۔ لَمْ دَمَ فُلَانٍ
دیت پر راضی ہونا۔ اور قصاص چھوڑ
دینا۔
عَقَلَ (رَضَ) عَقْلًا وَمَعْقُولًا - الْخَلَامُ -
رٹ کا سمجھ دار ہونا۔ دانہ ہونا۔ فُلَانٌ
بَعْدَ الصَّبَا - غلطی کو سمجھ لینا۔
عَقْلًا الشَّيْءَ - سمجھنا، تدبیر کرنا۔
صفت عَاقِلٌ - ج۔ عَاقِلُونَ وَ
عُقْلَاءُ وَعُقَالٌ - صفت مُؤْنَتٌ
عَاقِلَةٌ - ج۔ عَاقِلَاتٌ وَعَوَاقِلُ
عَقَلَ (رَضَ) عَقْلًا وَمَعْقُولًا -
الْمَصَارِعُ خَصَمَةً - ٹانگیں ٹانگ
ڈال کر گرد دینا۔ الْوَعْلُ - بند پھاڑ
پر چڑھنا اور محفوظ ہو جانا۔ اِلَيْهِ
پناہ لینا۔
عَقِلَ دَسْ - عَقْلًا - الْبَعِيرُ - اونٹ
کا ٹیڑھی ٹانگوں والا ہونا۔ صفت

أَعَقَلَ - مُؤْنَتٌ عَقْلًا - ج۔
عَقْلٌ۔
عَقَلَ - الْخَلَامُ - رٹ کا عقل مند ہونا۔
الْعَلَامُ - رٹ کے کو عقل مند بنانا۔
الْبَعِيرُ - اونٹ کی ٹانگ ران ملا کر
باندھنا۔ الرَّجُلُ عَنْ حَاجَتِهِ -
روک دینا۔
عَاقِلُهُ مَعَاقِلُهُ - سمجھ بوجھ میں مقابلہ
کرنا۔
أَعَقَلَهُ عَقْلًا بَانًا - أَعَقَلَ الرَّجُلُ -
سال کی زکوٰۃ واجب ہو جانا۔
تَعَقَّلَ - الْخَلَامُ - رٹ کے کا سمجھ دار ہونا۔
بتکلف عقلمند بننا۔
تَعَقَّلَهُ - رُكْنَا - تَعَقَّلَ الرَّجُلُ - پاؤں
موڑ کر سرین پر رکھنا۔ الرَّجُلُ أَوْ
السَّرَجُ - کجاوہ یا زین پر پاؤں موڑ کر
رکھنا۔
تَعَاَقَلُوا - بتکلف عقلمند بننا۔ تَعَاَقَلُوا
دَمَ الْقَتِيلِ - ادائے دیت میں
شرکت کرنا۔
لَا عَقَقَلُ - التَّمَحُّمُ - نیزہ کو روکنا۔ اور
پینڈی کے درمیان رکھنا۔ الْبَعِيرُ -
اونٹ کی ٹانگ ران ملا کر باندھنا۔
الرَّجُلُ أَوْ السَّرَجُ - کجاوہ یا زین پر
پاؤں موڑ کر رکھنا۔ مِنْ دَمِ فُلَانٍ -
دیت لینا۔ الدَّوَاءُ بَطْنُهُ - دوا
کا قبض کرنا۔ الرَّجُلُ - پاؤں موڑ کر
سرین پر رکھنا۔ لَا عَقَقَلَهُ - روکنا۔
ٹانگ میں ٹانگ لٹکا کر بچھاڑنا۔
الْقَاتِ - بکری کی ٹانگ کو اپنی ساق
اور ران کے درمیان دبا کر دوہنا۔
أَعَقَقَلُ - لِسَانُهُ - زبان کا بند ہو جانا۔
العَقْلُ - روحانی نور جس سے غیر محسوسات
کا ادراک ہوتا ہے۔ دل، دیت۔
ج۔ عَقُولٌ۔

العَقْلِيُّ: منسوب به عقل، جس میں حس باطنی کو داخل نہ ہو۔

العَقْلِيَّةُ: زبان کی روک۔

العَقْلَةُ: جس سے باندھا جائے۔ ج۔

العَقَالُ: وہ رسی جس سے اونٹ کے

زانوں کو باندھا جائے۔ سر پر باندھنے

کی رسی۔ العَقَالُ: اونٹ یا بکری کی

ایک سال کی زکوٰۃ۔ کہتے ہیں۔

أَدَيْتُ عِقَالَ سَنَةٍ: ایک سال کی

زکوٰۃ ادا کر دی۔ عِقَالُ الْمَيْثُومِ:

وہ شریف جو قید کیا جائے تو دوسو

اونٹوں کا فدیہ دے۔

العَاقِلُ: ف۔ سمجھ دار۔ ج۔ عُقْلَاءُ و

عَاقِلُونَ و عُقَالٌ: عورت کو بھی

عاقل کہتے ہیں۔ العَاقِلُ: پہاڑی کبرا۔

دینت دینے والا۔ ج۔ عَاقِلَةٌ:

العَاقِلَةُ: مننت عاقل۔ قوت فہم۔

عَاقِلَةُ الْوَجَلِ: پیری رشتہ دار۔

العُقُولُ: سمجھ دار۔ قابض دوا۔

العَقُولُ: معقول۔

العَاقُولُ: دریا کا بڑا حصہ۔ موج۔

دادی کا نہر کا موڑ۔ بے نشان زمین مبہم

معاملات۔ ج۔ عَوَاقِلُ:

العُقَالُ: جانور کے پاؤں کی بیماری

العَقِيلَةُ: مِنَ النِّسَاءِ: شریف پردہ

دار عورت۔ مِنَ الْإِزْبِلِ: عمدہ

اونٹ۔ مِنَ الْقَوْمِ: سردار۔ مِنَ

كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کا عمدہ ٹکڑا۔ عَقِيلَةٌ

الْبَحْرِ: موتی۔ ج۔ عَقَائِلُ:

المَعْقِلُ: پناہ گاہ۔ اونٹوں کے باندھنے

کی جگہ۔ بلند پہاڑ۔ ج۔ مَعَاقِلُ:

المَعْقَلَةُ: خون بہاتا وان۔ کہتے ہیں۔

”صَارَ دَمُهُ مَحْقَلَةً عَلَى قَوْمِهِ“

قوم پر اس کا خون تادان ہو گیا جس کا وہ

ہر سال ادا کرتی ہے۔ ج۔ مَعَاقِلُ:

المَعْقُولُ: سمجھا ہوا۔ عقل، ج۔

مَحْقُولَاتٌ: عِلْمُ الْمَعْقُولَاتِ،

وہ علم جس میں عقلی چیزوں سے بحث

کی جائے۔

عَقِمْتُ ذَنْ عَقْمًا و عَقِمْتُ

ذَكَ عَقْمًا و عَقِمْتُ ذَا عَقْمًا و

عَقِمْتُ عَقْمًا و عَقِمَا: الْمَرْأَةُ

او الذَّوْحِمُ: بانجھ ہونا۔ صفت۔

عَقِيمٌ، عَقِمْتُ مَفَاصِلَهُ: جوڑوں

کا خشک ہونا۔

عَقِمَ رَسٌ عَقْمًا: خاموش ہونا۔

عَقِمَ رَضٌ عَقْمًا وَاَعْقَمَ و عَقِمَ:

اللَّهُ الْمَرْأَةُ: بانجھ کرنا۔ عَقِمَهُ:

خاموش کرنا۔ عَقِمَ الشَّيْءُ: جراثیم

کو مارنا۔

عَاقِمَةُ مُعَاقِمَةٍ: جگر کا زنا۔ خصوصیت

کرنا۔ کالی دنیا۔

اَعْتَقَمَ: ابید۔ آنا جانا۔ فِي الْأَمْرِ:

دخل دینا۔

العَقْمُ وَالْعَقْمَةُ وَالْعَقْمَةُ: سُرخ

کپڑا نقش و نگار کی ایک قسم۔

الْمَرْأَةُ الْعَقِيمَةُ: بے اولاد عورت۔ ج۔

عَقَائِمُ و عَقْمٌ:

الرَّجُلُ الْعَقِيمُ: بے اولاد مرد۔ ج۔

عَقْمَاءُ و عَقَامٌ و عَقْفَى: عَقْلٌ

عَقِيمٌ: جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔

حَرْبٌ عَقِيمَةٌ: سخت لڑائی، کہتے ہیں

الدُّنْيَا عَقِيمَةٌ: دنیا بے برکت ہے۔

حَرْبٌ عَقَامٌ و عَقَامٌ: سخت لڑائی۔

دَاءٌ عَقَامٌ: لاعلاج بیماری۔ یَوْمٌ

عَقَامٌ: سخت دن۔ العَقَامُ: بے

اولاد۔ بدخو۔

الْعَقِيمَةُ: مِنَ الْأَرْحَامِ: بانجھ۔ ج۔

عَقَائِمُ:

العَقِيُّ وَالْعَقِيَّةُ: مِنَ الْكَلَامِ: پوشیدہ

کلام۔ الْعَقِيُّ: خاندانی شرافت والا۔

المُعَقَّمُ: بڈیوں کا جوڑ۔ ریڑھ کی ہڈیوں

کے مہرے۔ ج۔ مَعَاقِمُ: مَعَاقِمُ

النَّحِيلِ: گھوڑے کے جوڑ۔

المُعَقُّومُ: مِنَ الرِّجَالِ: بے اولاد۔

عَقَا يُعْقَوُ عَقْوًا اِعْتَقَى: اِعْتِقَاءً:

کنواں کھوڑا اور ایک طرف سے سوت

نکالنا۔ عَقَا الْعَلَمُ: جھنڈے کا بلند

ہونا۔ عَقَا الْأَمْرَ: مکروہ جانا۔

فَلَانًا رُكْنَا: اِعْتَقَى الرَّجُلُ: رُكْنَا:

عَقَا دَعَاكَ: رُكْنَا:

العَقْوَةُ: گھر کے آس پاس، میدان، محلہ۔

ج۔ عَقَاءُ

عَقَى اِبْنُ عَقِيًّا: الْأَمْرَ: مکروہ جانا۔

(د۔ و عَقَى) الْوَلَدَ: بچے کو گھٹی پلانا۔

عَقَى الْبَطَانُ: اِطْنِے میں بلند ہونا۔

اَعَقَى اِعْقَاءً: اکڑوں بیٹھنا۔ الشَّيْءُ:

مکروہ جانا۔

الْعَقْوُ: نومولود کا پاخانہ۔ گوا۔ ج۔

اَعْقَاءُ:

الْعَقِيَانُ: خالص سونا۔

عَكٌّ رَضٌ عَكًّا: اَلْيَوْمَ: سخت گرمی

اور گھٹن والا دن ہونا۔ صفت عَكٌّ و

عَكِيكَ: عَكْنَةُ الْحَشَى: لگاتار

بخار ہونا۔ الرَّجُلُ: حق میں ٹال مٹول

کرنا۔ عَكَّةٌ عَنْ حَاجَتِهِ: باز رکھنا۔

كَأَنَّ الْحُجَّةَ: مغلوب کرنا۔ كَ

بِالْأَمْرِ: بالقَوْلِ: بار بار کہہ کر تھکا

دینا۔ كَ بِالسَّوْطِ: کوڑے سے مارنا

۔ كَ بِشَرِّ: بار بار کرنا۔ الْكَلَامُ:

وضاحت کرنا۔

عَكٌّ: گرمی سے جوش مارنا۔ الرَّجُلُ:

سخت بخار چڑھنا۔

عَاكَةٌ: علیہ۔ مائل کرنا۔

ع



العَكَّةُ وَالْعَكَّةُ وَالْعَكَّةُ وَالْعَكَاكُ وَ
الْعَكِيكُ: سخت گرمی گھٹن کے ساتھ
العَكَّةُ وَالْعَكَّةُ: تیز بخار۔ گرم ریت
العَكَّةُ: گھی کا ڈبہ۔ جہ۔ عَكَاكُ وَ
عَكَاكُ: اسی سے ہے۔ تَسْمِيْنُ
الْقَبِيْبِي حَتَّى صَارَ كَالْعَكَّةِ: بچہ
لمبے کی مانند موٹا ہو گیا۔ كَيْلَةُ
عَكَّةٍ: سخت گرمی والی رات۔ يَوْمٌ
عَكِيكٌ: سخت گرم دن۔ جہ۔ عَكَاكُ
عَكَبْتُ عَكُوْبَانَ: اونٹوں کا هجوم کرنا۔
- الْقَيْدُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔
عَكَبَ الْمَرْجُلُ: پھینکا۔
عَكَبَ دَسَ عَكَبًا: موٹے ہونٹ، اور
موٹے جڑے والا ہونا۔ پاؤں کی انگلیوں
کا قریب قریب ہونا۔ صفت عَكَبُ
مَوْنَتٌ مَكْبَاءٌ: جہ۔ عَكَبُ
عَكَبْتُ - النَّارُ: آگ کا دھوئیں والی
ہونا۔
تَعَكَبَةُ الْهُمُومُ: غموں کا هجوم کرنا۔ گھبراہٹ
اَعْتَكَبَ - الْعَبَارُ: غبار اٹھنا۔ الْعَبَارُ
غبار اڑانا۔ المَكَانُ: غبار والا
ہونا۔ اِلْدَبِلُ: کسی جگہ میں جمع ہونا
اور غبار اڑانا۔
الْعَكْبُ وَالْعَكُوبُ وَالْعَاكُوبُ وَالْعَاكَبُ
غبار۔ الْعَاكَبُ: دھواں، ہانڈی کی
بھاپ۔
الْعَاكِبُ - فَا: بھیڑ، انہود۔ جہ۔ عَكُوبُ
الْاَعْكَبُ وَالْحَاكَبُ وَالْعَكْبُ: عتكبوت
دکڑی کا اسم جمع۔
الْعَاكُوبُ: غبار۔ ایک خاردار سبزی جو کچی
اور پکی کھائی جاتی ہے۔
الْعَاكِبُ: ایک چیز جس کو شہد کی مٹی پر
پر لگا کر لاتی ہے اور شہد کی جگہ میں اس
کو رکھتی ہے۔
عَكَبَشَهُ: مضبوط باندھنا۔

تَعَكَبَشَ: فِيهِ الْغُصْنُ: ٹہنی کے
کاٹے چھنا۔
عَكَدَ دَسَ عَكَدًا وَاعَكَدَ: اَلِيَّةُ
پناہ لینا۔ عَكَدَ الْاَمْرَ فَنَانَا: ممکن
ہونا۔
عَكَدَ دَسَ عَكَدًا: الضَّبُّ: گوہ کا موٹا
ہونا۔ صفت عَكَدُ
عَكَدَ بِهِ: اَعْتَكَدَهُ: لازم ہونا۔
اِسْتَعَكَدَ: الضَّبُّ: گوہ کا موٹا ہونا۔
المَاءُ: پانی جمع ہونا۔
عَكَدُ: الشَّيْءُ: چیز کا درمیان۔ کہتے ہیں
عَكَدُكَ هَذَا الْاَمْرَ: فلاں معاملہ
تمھارے لیے غایت ہے۔
الْعَكْدَةُ: دُم کی ہڈی۔ قوت۔ گدہ کا
سوراخ۔
عَكْدَةُ اللِّسَانِ: زبان کی جڑ۔
عَكَدَ دَسَ عَكَدًا وَاعَكَدَ: اَلِيَّةُ
حملہ کرنا۔ پھرنا۔ مڑنا۔ مائل ہونا۔ کہتے
ہیں۔ عَكَدَ عَلَيْهِ الدَّهْمَانِ بَخْمِيرٍ
زمانہ اس پر خیر و برکت کے ساتھ
مائل ہوا۔
عَكَدَ دَسَ عَكَدًا: الْمَاءُ وَنَحْوُهُ: پانی
گدلا ہونا۔ صفت عَكَدُ
عَكَدَ وَاعَكَدَ: الْمَاءُ: پانی کو گدلا کرنا۔
اَعَكَدَ اللَّيْلُ: رات کا سخت تاریک
ہونا۔ اَعَكَدَ الرَّجُلُ مَرَدًا وَبَارَهُ
حملہ کرنا۔
اَعْتَكَدَ عَلَيْهِ: حملہ کرنا۔ اللَّيْلُ
رات کا سخت اندھیری ہونا۔ اَلْمَطَرُ
سخت بارش برسنا۔ اَعْتَكَدَتِ
الرَّيْبُ: ہوا کا غبار اڑانا۔ د۔ و
تَعَاكَدَ الْقَوْمُ فِي الْحَرْبِ: گھسان
کی جنگ کرنا۔
الْعَكْرُ: تلوار کا مورچہ۔ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
تلچھٹ۔

الْعَكْرُ: اصل جَرُّ، کہتے ہیں۔ رَجَعَ فَلَانٌ
إِلَى عَكْرِهِ: فلاں اپنی اصل کی طرف
لوٹ گیا۔ عادت۔
الْعَكْرَةُ وَالْمَعَكْرَةُ: دوبارہ حملہ کرنا
بھاگنے کے بعد۔
الْعَكْرَةُ: اونٹوں کا گلہ۔ زبان کی جڑ۔ جہ
عَكْرُ: اختلاط والتباس۔ کہتے ہیں
وَقَعُوا فِي عَكْرَةٍ: وہ گڑ بڑ میں
پڑ گئے۔
الْعَكَارُ: بہت حملہ کرنے والا۔
عَلَامٌ عَكْرَدٌ: موٹا تازہ لڑکا۔
الْعَكْرَشَةُ: مادہ خرگوش۔
يَعْكُمُ اللَّيْلُ: رات کا اندھیرا۔ عَكْرَمَةٌ
معرف ہے بحالت علمیت۔ الْعَكْرَمَةُ
کبوتری یا قمری مادہ۔
عَكَزَ دَسَ عَكَزًا: الرَّمْحُ: نیزہ کاڑنا۔
بِالشَّيْءِ: راہ پانار۔ وَتَعَكَزَ: عَلَى
عَكَازَتِهِ: ڈھلے پر سہارا لینا۔
تَعَكَزَ قَوْسُهُ: کمان کو سہارا بنانا۔
عَكَزَ دَسَ عَكَزًا: سکرٹنا۔
عَكَزَ الرَّمْحُ: نیزے میں پھل لگانا۔
الْعَكْرُ: بخیل۔ بدخو۔
الْعَكَازُ وَالْعَكَازَةُ: ڈھلڑا جس کے
نیچے پھل لگا ہو۔ جہ۔ عَكَازَاتُ
عَكَازَاتُ: بچہ شیر۔
عَكَسَ دَسَ عَكْسًا: الْكَلَامُ وَنَحْوُهُ
بات کو الٹ دینا۔ الشَّيْءُ: آخر کو
اول کر دینا۔ زمین کی طرف جھٹکا دے
کر کھینچنا اور پٹک دینا۔ الْبَعِيرُ
اونٹ کو نکیل لگا کر رسی کو ٹانگ سے
باندھ دینا۔ رَاسُ الْبَعِيرِ: اونٹ
کے سر کو موڑنا۔ عَيْنُ الْمِرْبَعِ: پھیر
دینا۔ ہٹا دینا۔ عَلَى فَلَانٍ اَمْرًا
معاملہ کو اسی پر لوٹا دینا۔ اَلطَّعَامُ:

کھانے میں دودھ ملا ہوا شوربہ ڈالنا۔
عکس (دس) عکسا۔ تنگ عادت ہونا۔
عاکس معاکسة و عکاسا۔ الکلام۔
کلام کو پلٹ دینا۔ ء۔ ایک دوسرے
کی پیشانی کو پکڑنا۔ عام لوگ مخالفت
کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
تَعَكَّسَ - فی مشیتہ - رنگ کر چلنا۔
تَعَاكُسَ وَاَعْتَكَسَ وَاَلْعَكَسَ - پلٹ
جانا۔ اَعْتَكَسَ - دودھ ملا ہوا
شوربہ بنانا۔

عکاس البعیر - نیل کی رسی جو اونٹ کے
گھٹنے پر باندھ دیتے ہیں۔

العکاس - مڑی نہ۔
العکینس - وہ دودھ جو شوربے میں ملایا
جائے۔ رسی جس سے اونٹ کو روکتے
ہیں۔ درخت کی شاخ جس کو زمین کے
نیچے دبا دیتے ہیں کہ اس سے درخت
نکلے (رقم)
العکینسة - بہت سارے اونٹ، اندھیری
رات۔

عکش (دس) عکشا۔ الشعور۔ بالوں کا
پیچیدہ اور نہ بہ نہ ہونا۔ التبت۔
نہاتات کا بہت اور گنجان ہونا۔
عکش (دس) عکشا۔ الشیء - جمع کرنا۔
صفت فاعلی عکش صفت مفعولی۔
مَعَكُوشٌ - الوجہ مضبوط باندھنا
- علیہ - حملہ کرنا۔
تَعَكَّشَ - الامر - دشوار ہونا۔ الشیء -
سکڑنا۔ الشعور۔ بالوں کا پیچیدہ اور
نہ بہ نہ ہونا۔

العکش - من الشعیر - پیچیدہ اور
نہ برتنہ بال - بیکار اور فضول انسان
شجوة عکسة - بہت زیادہ شاخ
والانجمن درخت۔
العکاش والعکاش والعکاشة۔

والعکاشة - مڑی اور اس کا جلال۔
عکصة (دس) عکصا۔ عن حاجتہ۔
بٹانا۔ پھیر دینا۔
عکص (دس) عکصا۔ بدلو ہونا۔ صفت
عکص - عکصت الدابة۔
سرکشی کرنا۔

تَعَكَّصَ - بکذا علیہ - بخل کرنا۔
رَمَلَهُ عَکِیصَةً - دشوار گزار ریت
کا ٹیلہ۔

عکظہ (دس) عکظا۔ مغلوب کرنا۔ فزکو
رد کرنا۔ روکنا۔ الشیء - رگڑنا۔
الادیحہ - چلنے کو دباغت کے لیے
رگڑنا۔ عکظا بالشیء - فسر کرنا۔
عکظہ و عکظہ عن حاجتہ۔

بٹانا۔ پھیر دینا۔
عکظہ معاکظہ - ٹال دینا۔
تَعَكَّظَ - علیہ الامر - دشوار ہونا۔
القوم - جمع ہونا۔ پھیر کرنا۔
تَعَاكَظَ - القوم - مقابلہ کرنا۔ آپس میں
فز کرنا۔ جھگڑا کرنا۔

العکظ والعکیط - چھوٹے قد والا۔
عکاز - عرب کے ایک بازار کا نام جہاں
عربی قبائل جمع ہوتے اور غریب و فروع
کرتے اور مفاخرت کے شعر پڑھا کرتے
تھے (مذکورہ نوٹ)

عکفة (دس) عکفا۔ عن الامر
منع کرنا۔ ء علی الامر - کسی چیز پر
روکے رکھنا۔ عکفا و عکوفاً
القوم حوله و بہ - گرد گرد چکر
لگنا۔ عکف علی الامر - ہمیشہ
لازم رہنا۔ (را عکفت و تعکفت)
فی المكان - بند رہنا۔

عکف - الجواهر - نہ برتنہ رکھنا۔
الشعر - بالوں کو گھٹکے یا لے کرنا۔ ء
عن کذا - روکنا۔ منع کرنا۔

عاکفة معاکفة - لازم رہنا۔
العکف من الشعر - گھٹکے یا لے کرنا۔
العاکف - نا - مقيم - جہ - عاکفون و
عکف و عکوف۔
شعر معکوف - گھٹکی چوٹی کے ہوتے
بال۔

المعکف - مفع - مڑا ہوا۔ ٹیڑھا۔
عکف (دس) عکفا۔ الشیء - بکھرنا۔
کے بعد اکٹھا کرنا۔ المتاع - سامان
نہ برتنہ رکھنا۔ الرجل - بچھاڑنا۔
البعیر - اونٹ کو رسی سے بازو اور
پاؤں ملا کر باندھنا۔ عکف فی الامر -
کو شش کرنا۔ فلان - مڑ جانا۔ دس۔ و
آعکف وَاَعْتَكَلَ - علیہ مشکل اور
مشتبہ ہونا۔ اَعْتَكَلَ الرجل - جدا
ہونا۔ القوران - سیکنوں سے لڑنا۔
العکف والعکل - لئیم - کینہ - جہ۔
آعکال۔

العاکل - نا - نجیل، چھوٹے قد والا۔ جہ
عکل۔

العکال - اونٹ کے گھٹنے باندھنے کی رسی۔
البعکال - چرواہے کی سوٹی جس کو وہ درخت
سے بنا لیتا ہے۔ جہ - کعاکل۔
عکم (دس) عکما۔ المتاع - سامان کی
گھڑی باندھنا۔ علیہ - حملہ کرنا۔
الرجل - انتظار کرنا۔ عن الامر -
پیچھے ہٹنا۔ ء عن زیارتہ - پیچھے
ہٹنا۔ البعیر - اونٹ پر باندھنا۔
لا أرض کذا - ارادہ کرنا۔

عکم عنہ - بٹایا جانا۔
عکمت الیل - اونٹوں کا موٹا ہونا۔
آعکمة - باندھنے میں مدد دینا۔ بندھو ہوا۔
عاکمة معاکمة - علی فلان - مدد
کرنا۔

اَعْتَكَمَ - الشیء - ڈھیر لگانا۔





الْعَمَلُ - جر۔ اَعْمَلُ وِعْمَلُوم۔ الْعَمَلُ -
جر۔ عَمَلٌ۔ گھڑی۔

الْعَمَلُ - بدری، بڈل، گھڑکنوں کی چیرنجی،
عورتوں کے سامان کا بیگ - کہتے
ہیں "مَالَهُ عَمَلُومٌ عَنْ كَذَا" اس
کے لیے فلاں چیز سے بھرنے کی کوئی
جگہ نہیں۔

الْمَعْمَلُ - پُرس گشت۔

تَعَمَّنَ - التَّعَمَّنَ - موٹا پے کی وجہ سے
سلوٹیں پڑنا۔

الْعَمَلَةُ - پیٹ کی سلوٹ - جر۔ عَمَلٌ و
اَعْمَالٌ - دُرُوحٌ ذاتُ عَمَلٍ - وسیع و
کشادہ زرہ۔

الْعَمَلُ - گلا۔

الْعَمَلَاءُ - مِنَ التَّوْبَىٰ اَوِ الشَّعْرِ مَوْتٌ
مقت والی اونٹنی یا بکری۔

الْعَمَلَانُ - بہت اونٹ بہت شتر مرغ -
عَمَلًا يَعْمَلُوْا عَمَلًا - ذَنْبُ الدَّابَّةِ -

جانور کی دم کو اس کی جڑ کی طرف
سے موڑنا کہتے ہیں "فَرَسٌ مَّعْكُوٌّ"۔

وَمُ مَّرَا كَهُوْطًا - فِي الْحَدِيدِ - قَدْ
کرنا اور باندھنا - عَمَلَتِ الْإِبِلُ -

موٹا ہونا - عَمَلَا الضَّبُّ يَذْنِبُهُ -
گدھ کا دم موڑنا - الدُّخَانُ - دھواں

اد پر چڑھنا - عَلَى قَوْمِهِ - مائل ہونا -
سِرِّا زَارَةً - انار باندھنے کی جگہ کو

سخت کرنا۔

الْعَمَلُ وَالْعَمَلُ - جانور کی دم کی جڑ -
زبان کی جڑ - انار بندی، موٹی گرہ -

ہر چیز کا بڑا حصہ، ہر شے کی موٹائی
الْعَمَلَةُ - نکلا - جر۔ عَمَلًا وِعَمَلًا -

الْعَمَلُ - مِنَ الْبَابِ الصَّانِ - ایک
دوسرے پر دودھ دونا ہوا اور

جما ہوا -
الْعَمَلُ - سخت دم کی جڑ والا - پیشانی والا -

مَوْنٌ عَلَوًا -

عَلَى اِيْعَالٍ عَمَلًا وِعَمَلًا وَاَعْمَلًا - مرنا۔
عَمَلًا يَزَارَةً - انار بند باندھنے کی

جگہ کو سخت کرنا - بِالْمَكَانِ اِقَامَتُ
کرنا - صفت عالی - جر۔ عَمَلًا -

اِعْمَلًا - مضبوط باندھنا - عَمَلًا
الدُّخَانُ - دھوئیں کا اوپر کو

چڑھنا -

عَلَّ دَنَضَ، عَلَّوْا وِعَلَّوْا وِلْعَلَّةً -
دوسری بار پینا - ء - دوسری بار پلانا

- ءَ صَرَبًا - لگاتار مارنا -

عَلَّ عَمَلَةً - مریض ہونا -

عَمَلَةً - بار بار پلانا - ءَ بَكْدًا - مشغول
کرنا - کھیل کود میں ڈالنا - عَمَلٌ

الشَّيْءِ عَمَلٌ بَيَانُ كَرْنَا - وسیل سے
ثابت کرنا - الْكَلِمَةُ - کلمہ کی

تعلیل کی وجہ بیان کرنا، تعلیل کرنا -
الْشُّمُوهُ - بار بار پھل توڑنا -

الْمَالُ - بہترین انتظام کرنا - ءَ
علاج کرنا -

اَعَلَّ - الرَّجُلُ - گھونٹ گھونٹ پلانا -
- ءَ اللّٰهُ - بیمار کرنا - الْكَلِمَةُ -

تعلیل کرنا -
تَعَمَّلَ - محبت ظاہر کرنا - بَكْدًا مِشْغُولٌ

ہونا -

تَعَمَّلَتْ وَتَعَالَتْ - الْمَرْأَةُ مِنْ
نِقَاسِمَهَا - نفاس سے پاک ہونا -

تَعَالَى الصَّبِيُّ شَدَى أُمِّهِ -
بچے کا پستان سے تمام دودھ چوس

لینا -

اَعْتَلَّ - مریض ہونا - بِالْأَصْرِ - مشغول
ہونا - عذر بیان کرنا - اَعْتَلَّتْ -

الرَّوْحُ - نرم ہونا - ءَ - بہتان
لگانا سراسر اَعْتَلَّتْ الْكَلِمَةُ - حرف

علت والا ہونا - الرَّجُلُ - دوسری

بار پینا - عنہ - بیمار پڑنا -

الْعَلُّ - موٹا بکرا - بڑی عمر کا - لاغر، بیماری
سے سکرے ہوئے چڑے والا - بے

خیر و بے برکت - جر۔ اَعْلَالٌ -
الْعَلَّةُ - ہلاوہ - سوکن - جر۔ عَلَاتٌ -

کہتے ہیں "بَنُو عَلَاتٍ" - ایک مرد
سے چند مادر وں کے بیٹے اس کے

برعکس کو خیاٹ کہتے ہیں -

عَلَّ - عَلَّالٌ - ایک لغت ہے -
الْعَلَّةُ - بیماری - مشغول کرنے والا واقعہ

اسی سے ہے "لَا يَعْدُمُ مَآئِدُ"
عَلَّةُ - اس شخص کے بارے میں کہتے

ہیں جو عذر کرتا ہے اور اپنے مقبوضہ
مال کے بچانے کے لیے منع کر دیتا ہے

عَلَّةُ الشَّيْءِ سَبَبُ - جر۔ عَلَاتٌ
وَعِلٌّ - ججہ - اَعْلَالٌ، الْعِلَاتُ

حالات - مختلف احوال - کہتے ہیں
جَرِي عَلَى عَلَاتِهِ - بہر حال یا

باوجود مختلف احوال کے قبول کیا - و
الْعَلَّةُ فِي الْحُرُوفِ - وہ تغیر جو

ابیات کے عروض و ضرب میں لازمی
پر لاتی ہو - سوائے نادر صورتوں کے،

حروف العلّة - الف، واو، یاء
الْعَلُّ - دوسری بار پینا - کہتے ہیں "عَلَّ"

بَعْدَ تَهْلٍ - پہلی بار پینے کے بعد
دوسری بار پینا -

الْعَلَالَةُ وَالْتَعَلَّةُ - ہلاوہ - الْعَلَالَةُ
پہلی بار دودھ دوہنے کی مہلت کے

بعد دوڑا ہوا دودھ - بقیہ دودھ -
نیزہ بازی کے بعد نیزہ بازی - دوڑ کے

بعد دوڑ -

الْعَلِيلُ - مریض - جر۔ اَعْلَاءُ -
الْمَعْلُ وَالْمَعْلُولُ - بیمار

الْعَلِيلَةُ - مَوْنٌ عَلِيلٌ - وہ عورت جو
بار بار خوشبو لگائے - جر۔ عَلِيلَاتٌ و

عَلَّائِلُ

الْيَعْلُولُ - سفید حوض - پانی کا بلبلا - سفید

بادل - تہ برتہ امیر - بارش کے بعد

بارش - دو کوٹن والا اونٹ - جہ

يَعْلِيلُ - بیا زمانہ

عَلَبَ رن، عَلَبًا وَعَلَبٌ - الشَّيْءُ - کاٹنا - نشان لگانا - خراش لگانا

عَلَبَ رن، عَلَبًا وَعَلَبٌ رن، عَلَبًا - سخت ہونا - صفت عَلَبٌ وَعَلَبٌ

وَعَلَبٌ وَاسْتَعْلَبَ - اللّٰحْمُ - سخت ہونے کے بعد بول بدل جانا

عَلَبَ السَّيْفُ - دندانہ دار ہونا

العَلَبُ - مار کا نشان - دالعلب و

العَلَبُ - ایسی سخت زمین جہاں کچھ

نہ اُگے - سخت چیز - جہ - عَلُوْبٌ

کتے ہیں رَجُلٌ عَلَبٌ - سخت ظالم

الْعُلْبَةُ - چڑے یا لکڑی کا بڑا برتن - جہ

عِلَابٌ وَعَلَبٌ - درخت کی موٹی گرہ - جہ

العُلْبَةُ - درخت کی موٹی گرہ - جہ

عَلَبٌ -

العِلْبَاءُ - گردن کے پہلو کا عضلہ - جہ

عَلَّيْ - کہتے ہیں تَشْتَبِہُ عِلْبَاءٌ

وہ بوڑھا ہو گیا

عَلَّتْ رن، عَلَتْ - الشَّيْءُ - جمع کرنا

الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ - ملانا کہتے ہیں عَلَّتْ

الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ - گیہوں جو میں ملا

دیے - الزند - چقماق سے آگ

نکلنا

عَلَّتْ رن، عَلَتْ - القوم - آپس میں

سختی سے لڑنا

عَلَّتْ - لَه الدُّوْبُ - جیلہ کرنا - مکر

کرنا - بہ - چٹنا - الشَّيْءُ - اچھی

طرح بنانا

اعْتَلَّتْ - بغیر انتخاب کے لے لینا

العَلَتْ - گیہوں وغیرہ سے ہر چیز نکال کر

پھینکنے کے قابل ہوا اس کو ملا دیا جائے

وَالْعَلِيْثَةُ - گیہوں جو کے ساتھ

ملا ہوا

العَلَاثَةُ - دوسری شے سے ملی ہوئی شے

ادھر ادھر سے جمع کرنے والا

اعْلَاثٌ - الزاد - جو بغیر چٹناؤ اور

عادت کے کھایا جائے

العَلِيْثُ - جو اور گیہوں کی روٹی

العَلِثُ وَالْمُعْتَلِثُ - جو باپ سے

علاوہ دوسرے کی طرف منسوب ہو

بیکار تیر

عَلَجَ رن، عَلَجًا - مضبوط ہونا

عَلَجَ رن، عَلَجًا - مضبوط ہونا

عَالَجَ مَعَالَجَةً وَعَالَجًا - مشق کرنا

- المریض - بیمار کا علاج کرنا

تَعَلَّجَ - التَّوَمُّلُ - ریت اکٹھا ہونا

تَعَالَجَ - علاج کرنا - القوم - آپس میں

جنگ کرنا

اعْتَلَجَ - القوم - آپس میں لڑائی کرنا

کشتی کرنا - اعْتَلَجَتِ الْوَحْشُ

ایک دوسرے کو مارنا - الارض -

لمبے لمبے سبزہ والی ہوتا - الْأَمْوَاجُ -

موجوں کا آپس میں ٹکرنا - کہتے ہیں

اعْتَلَجَتِ الرِّهْمُومُ فِي صَدْرِهِ

غم موج مارنے لگے - التَّوَمُّلُ ریت

جمع ہونا

اسْتَعْلَجَ - چلڈا - کھال موٹی ہونا

فُلَانٌ - واڑھی نکلنا

العُلْبُ - گدھا - جنگلی گدھا - گور خر

موٹا قوی عجمی کا فر، بعض لوگ مطلق

کافر پر اس کا اطلاق کرتے ہیں - جہ

عُلُوْبٌ، اَعْلَاجٌ عَلِجَةٌ

رَجُلٌ عَلَجٌ، عَلَجٌ، عَلَجٌ وَعُلَجٌ

سخت کاموں کا کرنے والا

العَلَاجُ - دوا - مشق - دفاع

العَلَجُ - چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت

العُلُوْبُ - پیغامبر پیغام

العُلْبَانُ - کانٹے دار درخت

العَلْبُجُ - لمبا اونٹ یا گدھا - تالاب

بہت پانی والا

العُلْبُجُ وَالْعُلْبُجُومُ - بہت سیاہ

العُلْبُجُومُ - بہت سیاہ، باغ، سمندر کی

موج - رات کی اندھیری، مینڈک نر،

مینڈھا، پہاڑی بکرا - بوڑھا بیل، ایک

سفید پرند، بطخ نر، شتر مرغ نر - بہت

پانی - جھاڑی - لوگوں کی جماعت - جہ

عَلَاجِيْہُ

عَلَدَ رن، عَلَدًا - سخت مضبوط ہونا

صفت عَلَدٌ

العَلْدُ - گردن کا پٹھار - جہ - اَعْلَادٌ

العَلْنَدِي وَالْعَلْنَدِي - مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

سخت اور موٹا - جہ - عَلَانِدٌ

عَلَانِدِي

العَلْنَدَانِ - مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - سخت اور موٹا

العَلْنَدَانِ - بہت سخت - العَلْنَدَانِ

مُوْتٌ

العَلْدِي - پیٹو، بندہ شکم

عَلَدَ رن، عَلَدًا وَعَلَدًا - بے چین

ہونا - صفت عَلَدٌ - عَلَدًا إِلَى الشَّيْءِ

مائل ہونا - مشتاق ہونا - مِنْ كَذَا -

بشکلف مرید بننا

اعْلَزَكَ - عاجز کرنا - كُ الْوَجَعُ - بے

چین کر دینا

عَلَسَ رن، عَلَسًا - المَاءُ - پینا

الْاِبِلُ - اونٹ کا کھانے کے لیے کچھ


نہ پانا

عَلَسَ - الدَّاءُ - مرض سخت ہونا - الْوَجَلُ

شور مچانا - کہتے ہیں - مَا عَلَسُوهُ

تَعْلِيْسًا - انہوں نے کچھ نہیں کھلایا





الْعَلَسُ وَالْعَلَّاسُ وَالْعُلُوسُ - خوراک کھانا۔

الْعَلَسُ - گیہوں کی ایک قسم۔ مسور، ایک قسم کی چوٹی۔ پیچھڑی۔

الْمُعَلَّسُ - آزمایا ہوا۔

الْعُلُوسُ - گھبراہٹ یا بیٹریا۔

عَلَّصْتُ - الْمُتَحَصِّنَ فِي مَعَالِيهِ - بدھنی کے سبب درہنہ ہونا۔

عَالَصَهُ عِلَاصًا - ایک دوسرے کو مارنا۔

رَعَّتْصَ - صَدَّ شَيْئًا - تھوڑا سا لینا۔

الْعَالَصَةُ - تھوڑا سا۔

الْعُلُوسُ - بدھنی یہ لفظ صفت بھی

واقع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں رَجُلٌ

عُلُوسٌ - بدھنی ہونا۔

عَلَّصَهُ رَحَى عَلَّصًا - اَوْتَدَ وَتَحَوَّكَ

کھوئی کو کپڑے کے لیے ملانا۔

عَلَّطَ رَنْ (مِنْ) عَلَّطًا وَعَلَّطَ النَّاقَةَ

داع لگانا۔ ڈیپشیر۔ بدگوئی کرنا۔

عَلَّطَ الْبَعِيرَ - پٹہ گردن سے نکال

دینا۔

تَعَلَّطَ - الْقَوْسَ تَامَةً چڑھنا۔

رَعَّتْصَ - الرَّجُلُ وَبِهِ - جھگڑا کرنا۔

رَعَّلُوْطَ - الْبَعِيرَ - اونٹ کی گردن پر

لٹک کر سوار ہونا۔ الامور بلا سوچے

سمجھے داخل ہونا۔

الْعُلُطَ - مِنَ التَّوْقِ - بے ہمار اور

بے نشان اونٹنی۔ جہ۔ اَعْلَاطَ -

اَعْلَاطُ الْكَوَاكِبِ - بے نام ستارے۔

الْعُلُطَةُ - گردن کا پٹہ۔ جہ۔ عُلُطَ -

الْعِلَاطَ - گردن کا پلو آفتاب کی شعاع۔

لڑائی اور جھگڑا۔ اونٹ کی گردن کی

رسی۔ جہ۔ اَعْلِطَةُ وَعُلُطَ -

در والاعلیط، اونٹ کی گردن کا

نشان۔

عَلَفْتُ (مِنْ) عَلَفًا وَعَلَفْتُ دَاعِلَفَ -

الِدَا اَيْتَه - جانور کو چارہ دینا۔ عَلَفَ

الرَّجُلُ - بہت پینا۔

اَعْلَفَ وَعَلَفَ - الطَّلَحُ - پھلی نکلنا۔

تَعْلَفَ - چارہ ڈھونڈنا۔

رَاعِلَفْتُ الدَّابَّةَ - ہنسن کر چارہ

مانگنا۔

الرَّجُلُ - بہت کھانے والا۔

الرَّجُلُ - چارہ ہی کھانے والا۔ جہ۔ عَلَا لَفَ

الرَّجُلُ - صرف چارہ کھانے والا۔

الرَّجُلُ - چارہ۔ جہ۔ عَلُوْفَةُ وَعِلَافُ

وَعِلَافٌ -

الرَّجُلُ - چارہ پینے والا۔ جہ۔ عَلَا فَهُ

الرَّجُلُ - صرف چارہ کھانے والا۔ جہ۔

عَلَا لَفَ -

الرَّجُلُ - چارہ ہی کھانے والا (واحد جمع)

الرَّجُلُ - چارہ۔ جہ۔ عَلَفَ -

الرَّجُلُ وَالْمَعْلُوفُ - بھان۔ چارہ کھانے

کی جگہ۔ جہ۔ مَعَالِفَ -

عَلَفَ - بول کی پھلی۔

عَلَفَ - الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ - ملانا۔

عَلَقَ رَنْ (مِنْ) عَلَقًا وَعُلُوفًا - الْبَعِيرُ وَ

نَحْوَهُ النَّبَاتَاتُ وَمِنْ النَّبَاتِ -

اونٹ کا اوپر اوپر سے چرنا۔ النَّبَاتِ

انگلیاں چوستا۔ در۔ عَلَقًا، الرَّجُلُ

گالی دینا۔ ڈیپشیر۔ بدگوئی کر کے

تکلیف پہنچانا۔

عَلَقْتُ عَلُوْقًا رَسًا، الْمَرْأَةُ وَكُلُّ

اُنْثَى يَأْوُلُودَ - حاملہ ہونا۔ الْوَحْشُ

بِالْجِبَالَةِ - وحشی جانور کا جال میں

پھنس جانا۔ الدَّابَّةُ - جانور کو پانی

پیتے ہوئے چونک کا چھٹ جانا۔

الشَّرْكُ بِالْثَّوْبِ - کپڑے میں کانٹا

گھس جانا۔ در۔ عَلَقًا، الرَّجُلُ فِي

الْوَادِي - چرنے کے لیے جانا۔

عَلَقَ رَسًا، عَلُوْقًا وَعِلَقًا وَعِلَقًا وَ

عَلَا قَةً - فَلَانًا وَعَلَقَ بِهِ - محبت

کرنا۔ حُبُّهُ بِقَلْبِهِ - محبت کرنا۔ کہتے

ہیں عَلَقَ مِنْهُ كُلُّ مَعْلُقٍ اس

نے اس سے محبت کی اور محبت دل کے

پردوں میں داخل ہو گئی۔ عَلَقَ دَمَ

فُلَانٍ - قتل کرنا۔ ہر وہ چیز جو اپنے

مقام میں واقع ہو اس کے لیے عَلَقَ

مَعَالِيْقَهُ بولتے ہیں در۔ عَلَقًا

أَمْرًا - جانا۔ عَلَقَ يَفْعَلُ كَذَا -

کرنے لگنا۔

عَلَقَ - الرَّجُلُ - گلے میں چونک لگوانا۔

ایسے شخص کو مَعْلُوقٌ بولتے ہیں۔

عَلَقَ - الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ وَعَلِيهِ وَمِنْهُ -

لٹکانا۔ الامور چمٹنا۔ الباب -

دروازہ بند کرنا۔ کَابَا عَلَى دَارِهِ -

دروازہ لگانا۔

عَلَقَهُ - دِل مائل ہونا۔

أَعْلَقَ - الرَّجُلُ - چونک لگانا۔ الْقَوْسُ

کمان کو لٹکانے کے لیے علاقہ بنانا۔

الرَّجُلُ - شکاری کے حال میں شکار

کا پھنسنا۔ تَحَفُّوْكَ بِالشَّيْءِ - ناخن

چھمنا۔ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ - لٹکانا۔

تَعَلَّقَ - الشَّيْءَ - لٹکانا۔ الشَّوْكُ

بِالشَّوْبِ - کانٹے کا کپڑے میں الجھنا۔

الرَّجُلُ بِالْجِبَالَةِ - شکار کا جال میں

پھنسنا۔ دَاعِلَقَ، فَلَانًا وَبِهِ -

محبت کرنا۔

الرَّجُلُ - مصر کہتے ہیں بی توبہ عَلَقَ -

کپڑے میں کسی چیز کے الجھنے سے پھین

ہے۔ در۔ عَلَقَ، بَرَشَ كَالْفَيْسِ -

تھپلا۔ جہ۔ اَعْلَقَ وَعُلُوقٌ - کہتے

ہیں "هُوَ عَلَقٌ عَلِيمٌ" وہ علم کا

شائق ہے۔

الرَّجُلُ - مم - خون، ہاتھ سے چھٹنے والی مٹی

لٹکانی مٹی چیز۔ درخت کا وہ حصہ

جہاں جانور پہنچ سکیں، چونکہ، واحد
عَلَقَۃٌ۔

الْعَلَقَۃُ لٹکانے کی نوعیت، بغیر آستینوں
کی قیص، بہترین کپڑا۔

الْعَلَقَۃُ درخت کا وہ حصہ جہاں جانور
پہنچ سکتا ہو، وہ چیز جس کو کھانے سے
پہلے بطور ہلاوے کے کھائیں، تھوڑی
سی چیز۔ تَعَلَّقَ۔ جہ۔ عَلَقَۃٌ کہتے ہیں
”لِي فِي هَذَا الْمَالِ عَلَقَۃٌ“ مجھے
اس مال سے تعلق ہے۔ لَمْ يَبْقَ
عِنْدَكَ عَلَقَۃٌ۔ اس کے پاس کچھ بھی
نہیں رہا۔

الْعُلُقُ موت، جماعت کثیرہ، اشغال۔
الْعَلَاۃُ درخت کا وہ حصہ جہاں جانور
پہنچ سکے، وہ چیز جو کھانے سے پہلے
بطور ہلاوہ کھائیں۔

الْعَلَاۃُ دم۔ دوستی، دشمنی۔ موت۔
گذر بسر کا ذریعہ جس کا انسان سے تعلق
ہو، جیسے مال، زوجہ، اولاد، تعلق،
محبت۔ جہ۔ عَلَاۃٌ کہتے ہیں۔ ”لِي
فِي هَذَا الْأَمْرِ عَلَاۃٌ“ مجھے اس
معاملہ سے تعلق ہے۔

الْعَلَاۃُ ماڈی وغیرہ لٹکانے کی چیز۔ جہ
عَلَاۃٌ۔

الْعُلُقُ مصیبت، موت، جس کا انسان
سے تعلق ہو۔ بست چھٹنے والا۔ دانی
پلائی۔

الْعُلُقُ بھوت، چھلاوہ، کتیا، بھیڑیا،
بھوک، دم۔

الْعُلُقُ جانوروں کا چارہ جیسے جو وغیرہ۔
الْعُلُقُ وَالْعُلُقُ ایک قسم کی گھاس
جو درخت پر پڑتی ہے، اس کا پھل
شہت کی طرح ہوتا ہے۔

التَّعْلِيْقَةُ حاشیہ کتاب۔ جہ۔
تَعَالِيْقُ۔

التَّعْلِيْقَةُ مُنْتِ مُعَلَّقٌ۔ وہ عورت جس کا
شوہر لاپتہ ہو گیا ہو۔

التَّعْلِيْقَاتُ زمانہ جاہلیت کے سامنے
قصیدے جن کو کعبہ میں لٹکایا گیا تھا۔
اسی لیے وہ تعلیقات کہلاتے ہیں۔

الْمُعَلَّقُ وہ پیالہ جس کو سوار اپنے ساتھ
لٹکائے رہتا ہے۔

الْمُعَلَّقُ زبان۔ ہر وہ چیز جس سے
لٹکایا جائے۔ جہ۔ مَعَالِيْقُ۔ رَجُلٌ
مُعَلَّقٌ جھگڑا۔ عام لوگوں کے
نزدیک۔ معلق کا اطلاق ذبح شدہ
جانور کے پیچھے اور جگر دل پر
ہوتا ہے، مگر فیض سحارۃ ہے۔

عَلَقَۃُ الشَّيْءِ کڑوی ہونا۔ الطَّحَامُ
کڑوی چیز ملا دینا۔

الْعَلَقَۃُ اندرائیں، غفلت، سرکڑوی شے۔
عَلَقَۃُ رَن ض، عَلَقَا، الْعَلَقُ وَتَحْوُہ
چبانا۔ نَابِيۃٌ۔ دانت پرینا۔

عَلَقَۃُ الْجِلْدِ کھال کو اچھی طرح دبا
دینا۔ يَدِيۡہِ عَلٰی مَالِہِ بخل کی وجہ
سے ہاتھ روک لینا۔

الْعَلَقُ جو گوند چھایا جائے۔ جہ۔ عَلُوۡقُ
وَأَعْلَاۡقُ۔ ایک کڑے کو الْعَلَقَۃُ
کہتے ہیں۔

الْعَلَاۃُ تود زمین جو پانی کے قریب ہو۔
الْعَلَاۃُ وہ لیس دار چیز جو ہاتھوں سے
چمٹ جائے۔

الْعَلَاۡقُ وَالْعَلَاۡقُ جو چیز چبائی جائے۔
الْعَلَاۡقُ بست چبانے والا۔ گوند بچنے
والا۔

عَلَمَۃُ رَن ض، عَلَمًا نشان لگانا۔ عَلَمَہُ
الشَّفۡہۃُ ہونٹ چیرنا۔

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

عَلَمَہُ رَس، عَلَمًا۔ الرَّجُلُ حقیقت
علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ پہچانا۔ یقین
کرنا۔ الشَّيْءُ وہ۔ جاننا۔ ادراکہ

بلند، شریف، سخت۔ ج۔ عَلَیُّونَ و
عَلِیَّةٌ۔ کہتے ہیں۔ ”ہُمُ عَلِیَّةٌ“
القوم۔ وہ سردارانِ قوم اور شرافت
قوم ہیں۔
العلیُّ۔ بلندی۔
العَلَوِیُّ۔ نسبت حضرت علیؑ کی طرف۔
ج۔ عَلَوِیَّةٌ۔
الْعَلِیَّةُ وَالْعَلِیَّةُ۔ بالاخانہ۔ ج۔
عَلَا لَیُّ۔ کہتے ہیں ”ہُوَ عَلِیَّةٌ“
قَوْمِہٖا وَعَلِیَّتِہِمَّ وَعَلِیْہِمَّ و
عَلِیْہِمَّ۔ وہ قوم میں رفعت و شرف
والا ہے۔
الْعَالِیُّ۔ قا۔ رَجُلٌ عَالِی الْکَعْبِ۔ شریف
کہتے ہیں ”أَتِیْتُهُ مِنْ عَالٍ“۔ میں
ادھر سے اس کے پاس آیا۔
الْعَالِیَّةُ۔ مُنْتَ عَالِی۔ نیزے کے ادھر
کا حصہ یا نیزے کا نصفِ اعلیٰ۔ ج۔
عَالِیَّاتٌ وَعَوَالٍ۔ العَوَالِیُّ نیزے
العَوَالِیُّ۔ مدینہ کے آس پاس کے
گاؤں۔ ان کی طرف نسبت کے لیے
عَالِیٌّ وَعَلَوِیٌّ۔ کہتے ہیں ”عَالِیَّةٌ
الشَّیْءِ“ چیز کا بلند حصہ۔ عَالِیَّةٌ
الْوَادِیُّ۔ وادی کا وہ حصہ جہاں سے
پانی گرے۔
الْأَعْلٰی۔ اسم تفضیل، زیادہ بلند۔ کہتے
ہیں ”هَؤُلَاءِ عَلٰی اَیْہِمَّ عِیْنًا“ وہ
لوگوں کے احوال کی زیادہ دیکھ بھال
کرتا ہے۔ مُنْتَ عَلِیًّا۔ ج۔ عَلِیٌّ۔
الْمُعْتَلٰی۔ شیر۔
الْعُلَیَّاءُ وَالْعُلَیَّاءُ۔ ہر بلند جگہ۔ کہتے ہیں۔
شَفَہُ عَلِیَّاءُ وَعُلَیَّاءُ۔ اوپر کا
ہونٹ۔ الْعُلَیَّاءُ۔ پہاڑ کی چوٹی۔
آسمان۔
الْعَلِیُّونَ۔ جنت اعلیٰ کا نام۔ یہ علیؑ
کی جمع ہے۔ وہ لوگ جو شر کے اونچے

مقامات پر رہتے ہیں۔ امیر اور شریف
لوگوں کو اہل علیتین کہتے ہیں، پست
درجے والوں کو یسفلیون۔
الْعُلَیَّانُ وَالْعُلَیَّانُ۔ مٹھا اور لہا۔ کہتے
ہیں ”رَجُلٌ عَلِیَّانٌ وَلَا مَرَّآةٌ“
عَلِیَّانٌ۔ زنجو۔
الْعُلَیَّانُ وَالْعُلَیَّانُ۔ بلند آواز۔
الْعُلَیَّانُ۔ کتاب کا عنوان۔
الْمَعْلَاةُ۔ شرافت و بلندی۔ ج۔ مَعَالٍ۔
الْمُعَلِّیُّ۔ ساتواں تیر جو اکیلے کا۔
الْحُرُوفُ الْمُسْتَعْلِیَّةُ۔ خ۔ ص۔ من۔
ط۔ ظ۔ ع۔ ق۔
عَلَوْنَ عَلَوْنَهُ وَعُلُوًّا۔ الِکِتَابُ۔
خط پر پتہ لکھنا۔
عُلُوًّا الِکِتَابِ۔ سرنامہ۔
عَلٰی کَعْبِی عَلِیًّا وَعُلِیًّا۔ السَّطْحِ۔
چڑھنا۔
الْعَلٰی وَالْعَلٰی وَالْعُلَیَّاءُ وَالْعُلَیَّاءُ
الْعُلَیَّانُ وَالْعُلَیَّانُ وَالْعُلَیَّاءُ
وَالْعُلَیَّاءُ وَالْعُلَیَّاءُ وَالْعُلَیَّاءُ
مادہ عل و ین دیکھو۔
عَلٰی۔ حرف جر ہے۔ درج ذیل معانی
کے لیے آتا ہے :-
۱۔ استعلاء، جیسے حُجِّلَ عَلٰی الدَّابَّةِ
جانور پر لا دیا گیا۔
۲۔ مصاحبت، جیسے بَدَلَ الْمَالِ
عَلٰی الْفَقْرِ۔ مال کو باوجود فقر کے
خرچ کیا۔
۳۔ مجاوزت بمعنی عَنْ، جیسے رَضِیَ
عَلِیْہِ اِی رَضِیَ عَنْہُ۔ وہ اس
سے راضی ہوا۔
۴۔ تخیل، جیسے عَلَامٌ تَخْصِبُ بَیْنِی۔
مجھ کیوں مارتے ہو۔
۵۔ ظرفیت، جیسے دَخَلَ الْمَدِیْنَةَ
عَلٰی حِیْنٍ غَفْلَةٍ۔ شہر میں غفلت

کے وقت داخل ہوا۔
۶۔ موافقت باء۔ جیسے اِذْکَبْتَ عَلٰی
اِسْمِ اللّٰہِ۔ اللہ کے نام سے
سوار ہو جاؤ۔
۷۔ استمداد، جیسے عَلٰی اَنْ قُرْبَتْ
الدَّارُ خَیْرٌ مِنَ الْبُعْدِ۔ گھر کا قرب
دوری سے بہتر ہے۔
۸۔ فوق کے معنی میں اسم ہو کر مستعمل ہے
جبکہ مِنْ کے بعد آئے، جیسے اَقَامَ
مِنْ عَلٰی جَنَاحِ الْهَیْکَلِ۔ سبیل
نے بازو پر کھڑا ہوا۔ کہتے ہیں۔ عَلٰی
کَذَا وَبِکَذَا۔ مجھے اتنا دو۔ عَلَیْکَ
زَبَدًا۔ زید کے ساتھ لازم رہو۔
عَلَیْکَ بِکَذَا۔ فلاں چیز کو لازم پکڑو
ایسی صورت میں یہ اسم فعل ہوتا ہے۔
عَمَدَن (عَمُومًا)۔ الشَّیْءُ۔ عام ہونا۔
الْمَطْرُورِ مِنْ۔ بارش کا تمام
زمین پر برسنار۔ عَمَّا، الْقَوْمُ
بِالْعَطِیَّةِ۔ سب کو شامل کرنا۔
عَمُومَةً، چچا بننا۔
عَمَدَ رَأْسُهُ عَمَّا وَعَمَّہ۔ پگڑی
باندھی گئی۔ عَمَّہ الرَّجُلُ۔ سردار
بنایا جانا۔
أَعَمَّ۔ معزز چھوٹ والا ہونا۔
عَمَّہ۔ عام کرنا۔ عَمَّہ باندھنا۔
عَمَّہ کسی معاملہ کو سپرد کرنا۔
أَعْتَمَّہ وَتَعْتَمَّہ وَاسْتَعْتَمَّہ۔ عمامہ
باندھنا۔ کہتے ہیں ”أَعْتَمَّہ الْمَقَابِلُ“
لبا ہو گیا۔ تَعْتَمَّتِ الْأَكَامُ
بِالْثَّبَتِ۔ طے نباتات سے بھر گئے۔
گویا عمامہ جیسا معلوم ہوتا ہے۔
تَعْتَمَّہ۔ چچا کہہ کر پکارنا۔
اِسْتَعْتَمَّہ۔ چچا بنانا۔
الْعَمَّہ۔ مہ۔ کثیر جماعت۔ چچا۔ ج۔
عَمُومَةً وَاعْمَامًا وَاعْمًا۔



لوگ۔ الْعُمُودُ أَوَّلُ الْخَطِّ الْعُمُودِيُّ
عِنْدَ الْمُهَنْدِسِينَ۔

وہ خط جو دوسرے خط پر
واقع ہو جس کے دونوں

طرف دو برابر زاویے
نکلیں۔ ب ت عمود یا خط عمودی۔

الْعَامِدَةُ - فَا - مُنْثَ عَامِدَةً - كَيْلُهُ
عَامِدَةً - لمبی رات۔

الْعَمِيدُ - سخت غزوہ۔ وہ شخص جس کو عشق
نے شکستہ خاطر کر دیا ہو۔ عَمِيدُ

الْقَوْمِ - قوم کا سردار۔ ج۔ عَمْدَاؤُ
عَمِيدُ الْأَمْرِ - قَوَامُ أَمْرٍ - عَمِيدُ

الْوَجْعِ - درد کا مقام۔ الْعَمِيدُ
وہ مریض جو بیٹھنے کی قوت نہ رکھتا ہو۔

اور اسے تکیوں کا سہارا دے کر بٹھایا
جائے۔

الْمَعْمُودِيَّةُ - بیتہ۔
الْعُمْدُ وَالْعُمْدَانِي - کامل تر نوجوان۔

الْعَمِيدُ - نازک بدن لڑکا۔
عَمْرَدَن - عَمْرَا - الْمَنْزِلُ يَا هَلِيلَہ۔

آباد ہونا۔ الْمَنْزِلُ - آباد کرنا۔ صَدَتْ
مَفْعُولُ مَعْمُورٍ - الدَّارُ - گھر تعمیر

کرنا۔ اِسْمُ الْحَارَةِ ہے۔ بالمكان
اقامت کرنا۔ كُ اللَّهُ - زندہ رکھنا۔

(عَمَارَةً) اللَّهُ مَسْكُونُهُ - آباد
کرنا۔

عَمْرَدُ ن - عُمُورٌ وَعَمَارَةٌ وَعُمْرَانَا
- الرجلُ بَيْتُهُ - لازم پکڑنا۔ عَمْرَتُهُ

کذا - زندگی بھر کے لیے دے دینا۔
(عَمْرًا وَعَمَارَةً) رَبِّيَّة - عبادت

کرنا۔ خدمت کرنا۔ روزہ رکھنا۔ نماز
پڑھنا۔ عَمْرًا وَعَمْرًا وَعَمَارَةً

وَعَمْرٍ (دس) عَمْرًا وَعَمْرًا وَعَمَارَةً
لمبی عمر پانا۔ (وَعَمْرَدُك) وَعَمْرُ

(دس) عَمَارَةً - الْمَالُ - مال کا

بستہ ہونا۔

عَمْرُوا أَعْمَرَ - الْمَنْزِلُ - آباد کرنا۔

عَمْرَةً وَأَعْمَرَ أَرْضًا - زندگی بھر
کے لیے دے دینا۔ عَمْرُ الرَّجُلِ -

لمبی زندگی پانا۔ عَمْرُكَ اللَّهُ - زندہ
رکھنا۔ عَمْرُ التَّوْبِ - کپڑے کو اچھا

بُننا۔ جب کسی کو خدا کی قسم دیتے ہیں کہ
فلاں کام عمر بھر کرے تو کہتے ہیں -

"أَعْمَرَكَ اللَّهُ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا"
أَعْمَرَكَ الْمَكَانَ - آبادی کے لیے

دے دینا۔ أَعْمَرَ الْأَرْضَ - آباد پانا۔
أَعْمَرَ عَلَيْهِ - مالدار بنانا۔

أَعْمَرَ - الْمَكَانَ - ارادہ کرنا۔ زیارت کرنا
کہتے ہیں "جَاءَ فَلَانٌ مُعَمَّرًا" فلاں

زیارت کے لیے آیا۔ اِتَّخَذْنَا نَادِيًا
لَعَمْرُكَ - ہم نے بیٹھنے کے لیے ایک

مجلس بنالی ہے۔ اِعْتَمَرَ الرَّجُلُ -
پگڑی باندھنا۔

اِسْتَعْمَرَ - كُ فِي الْمَكَانِ - آباد کرنا۔
جیسے اِسْتَعْمَرَ اللَّهُ عِبَادَةً فِي

الْأَرْضِ - اللہ نے اپنے بندوں کو زمین
میں آباد کرنا چاہا۔

الْعَمْرُ - زندگی۔ ج۔ أَعْمَارُ دین۔ قسم
کہتے وقت کہتے ہیں۔ لَعَمْرُكَ وَلَعَمْرُ

اللَّهِ وَأَعْمَرَ اللَّهُ - الْعَمْرُ دانتوں
کا درجہ یا گوشت۔ ج۔ عَمُورٌ -

الْعَمَارَاتُ - حق کے کوٹے کے دو جانب
لٹکا ہوا گوشت۔

الْعُمُرُ وَالْعُمُورُ - زندگی، اہل عرب کے
نزدیک عمر کا اندازہ چالیس سال تھا۔

الْعُمُرُ مسجد، گرجا۔ دانتوں کا درجہ یا
گوشت، مسوڑھا۔

عُمُرٌ - محم ہے اور عَمِيت و عدل کی وجہ سے
غیر منصف ہے۔ خلیفہ ثانی کا نام ہے۔

الْعُمَرَانُ - ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔

عَمُورٌ - علم ہے۔ حالت رفعی و جبری میں۔

خلیفہ ثانی کے نام سے امتیاز دینے کے
لیے واؤ لگاتے ہیں۔ ج۔ عُمُرُونَ

أَعْمُرُ عُمُورٌ - اُمُّ عُمُورٍ - بچوں کی
کنیت ہے۔

الْعُمَرَانُ - آبادی۔
الْعَمْرُ - مص۔ دین، عورتوں کے سر ڈھانکنے

کا رومال۔
الْعَمُورُ - ہر وہ چیز جو سر پر رکھی جائے۔

جیسے تاج، پگڑی وغیرہ۔ أَبُو عُمُرَةَ -
بھوک اور افلاس کی کنیت ہے۔

الْعَمُورَةُ - آباد مکان کا ارادہ۔ اصطلاح
شرع میں طواف اور سعی بَیْنَتِ الصَّفَا

وَالْمَرْوَةِ کا نام ہے۔ ج۔ عُمُورٌ
عُمَرَاتُ۔

الْعَمَارُ - سلام۔ پھول جس سے شراب کی
مجلس کو آراستہ کرتے ہیں۔

الْعَمَارَةُ - مص۔ ہر وہ شے جو سر پر دھری
جائے جیسے تاج، پگڑی وغیرہ۔ مزین

کپڑے کا ٹکڑا جو خیمہ میں لگاتے ہیں۔
پھولوں کا دستہ جو بادشاہ کو سلام کرتے

وقت پیش کرتے ہیں۔ بڑا قبیلہ، قبیلہ،
جنگی جہازوں کا بیڑا۔

الْعِمَارَةُ - مص۔ جس سے مکان کی آبادی
ہو، چھوٹا قبیلہ۔

الْعِمَارَةُ - عمارت کی مزدوری۔
الْعُمُرِي - وہ مکان یا زمین جس کو تمام عمر

کے لیے دے دیا جائے۔
مکان عَمِيرٌ - آباد۔ ثَوْبٌ عَمِيرٌ -

گاڑھا کپڑا۔
الْعَامِرُ - فا۔ گھر کا رہنے والا۔ ج۔ عُمَارُ -

مُنْثَ عَامِرَةً - ج۔ عَوَامِرُ -
مکان عَامِرٌ - آباد مقام کہتے ہیں

"تَرَكْتُهُمْ عَامِرِينَ بِمَكَانٍ كَذَا"
میں نے ان کو فلاں مقام پر آباد چھوڑا۔

ع



الْعَامِرُ: بجو کا بچہ۔ اُمّ عامر: بیوہ۔
 عَوَامِرُ الْبُيُوتِ: سانپ وغیرہ واحد
 عامر و عامرة۔
 الْعَمِيرَةُ: شہد کا چھتہ۔ بڑا قبیلہ۔ ج
 عَمَارُ۔
 الْعَمَارُ: مبالغہ کا صیغہ۔ قوی ایمان والا۔
 متحمل مزاج۔ وقار والا۔ مرتے دم تک
 امدادی پر قائم رہنے والا۔ اچھی
 تعریف والا۔
 الْعَمَارُ: وہ جنات جو مکانوں میں رہتے
 ہیں۔ عامر کی جمع ہے۔
 الْعَمِيرُ: آباد و خوشحال جگہ۔
 الْمُسْتَعْمَرَةُ: نوآبادی (مولد لفظ ہے،
 الْيَعْمُورُ: بکری کا بچہ، چھوٹی بھیڑ۔ ج
 يَعَامِيرُ۔
 الْعَمُورُ: ہر چیز کا لمبا، خوش، قوی، سخت
 مزاج، مرد، زرخیز، بھیڑیا۔
 الْعَمْرُسُ: قوی مرد۔ الْعَمْرُسُ: بچہ بڑ
 ج۔ عَمَارِيْسُ۔
 الْعَمْرُوطُ: کرکش، چور۔ ج۔ عَمَارِطُ و
 عَمَارِيْطُ و عَمَارِطَةٌ۔
 الْعَمْرُوطُ: جوان، سبک، بہادر، بلا۔
 مصیبت۔
 عَمَسَ رَن، عَمَسًا: الکتا بٹ مٹ جانا۔
 الامر: دیدہ و دانستہ جاہل بنا۔
 عَمَسَ وَاَعَمَسَ: الشیء: چھپانا۔
 عَمَسَ رَن، عَمَسَ رَن، عَمَسًا وَاَعَمَسًا
 وَاَعَمَّوْا وَاَعَمَّاسَةً: الیوم: سخت
 ہونا، تاریک ہونا۔
 عَامَسَهُ مُعَاسَاةً: باز بتانا۔ دشمنی
 چھپانا۔
 تَعَامَسَ: تغافل برتنا۔ مِنْهُ: نہ جاننے
 والا نظر کرنا۔ کہتے ہیں: "تَعَامَسَ
 عَلَیْ" بہم رکھا اور شبہ میں رکھا۔
 الْعَمَسُ وَالْعَمَانُ وَالْعَمُوسُ وَالْعَمِيسُ

مشکل کام۔ یوم عَمَاسُ: سخت دن
 حَرْبُ عَمَاسٍ وَاَعَمِيسُ: سخت
 لڑائی۔ کِلِیلُ عَمَاسٍ: بہت اندھیری
 رات۔ الْعَمَاسُ: طاقتور شیر۔
 مصیبت۔ ج۔ عَمَسٌ وَاَعَمَسٌ۔
 الْعَمُوسُ وَالْمُعَاسُ: وہ شخص جو
 کاموں کو بے باکانہ کرے، جیسے نادان
 کرتا ہے۔
 امْرُؤٌ مُعَمَسٌ: سخت کام۔
 عَمِشَتْ رَسَ عَمَشًا: عَيْنُهُ: آنکھ کا
 کمزور ہونا، چُندھا ہونا۔ صفت مذکر
 اَعْمَشُ: صفت مؤنث عَمَشَاءُ۔
 ج۔ عُمَشُ: فیہ الکلام: کلام
 کا اثر کرنا۔
 عَمَشَهُ رَن عَمَشًا: بلا قصد مارنا۔ الْوَلَدُ
 لڑکے کی ختنہ کرنا۔
 عَمَشَ وَاَعَمَشَ: عَنِ الشیء: غافل
 ہونا۔ عَمَشَهُ اللہ: چنڈھے ہیں کو
 دور کرنا۔
 اسْتَعْمَشَهُ: بے وقوف سمجھنا۔
 الْعَمَشُوشُ: وہ انگور کا خوشہ جس میں سے
 کچھ دانے کھا لیے گئے ہوں۔
 عَمَطَارَن، عَمَطًا وَاَعَمَطًا: عِرْطَةً:
 عیب لگانا ہے آرونی کرنا۔
 عَمَقَ رَن، عَمَقَ رَن، عَمَقًا:
 الْمَكَانُ او الْفَرْقُ: دور ہونا کُتَاوُ
 اور لب ہونا۔ صفت عَمِيقُ۔ ج
 عَمِيقٌ وَاَعَمِيقٌ وَاَعَمَاقُ۔
 عَمَقَتْ رَن، عَمَقًا وَاَعَمَقًا: الْبُئْرُ
 وَاَنْحَوْهَا: گہرا ہونا۔ صفت عَمِيقَةٌ۔
 ج۔ عَمَاقُ۔
 اَعَمَنَ وَاَعَمَنَ وَاَعَمَنَ: الْبُئْرُ:
 گہرا کرنا۔ کہتے ہیں: "عَمَقَ الشُّظُرُ"
 فی الامور: اس نے معاملات میں
 گہری نظر ڈال۔

تَعَمَّقَ: فی الامر: معلّے کی تہ تک
 پہنچنے کی کوشش کرنا۔ فی کلامہ: خوب
 چرب زبانی سے بات کرنا۔
 الْعَمَقُ وَالْعُمُقُ وَالْعُمُقُ: گہرائی
 الْعَمَقُ وَالْعُمُقُ: جو جنگل کے اطراف
 سے دور ہو۔ ج۔ اَعَمَاقُ۔
 الْعَمَقُ: حق و استحقاق۔ کہتے ہیں: "لہ"
 فیہ عَمَقٌ اس کے لیے حق و
 استحقاق۔
 الْعَمَقَةُ: رتن کی تہ میں گئی کا میل۔
 رَجُلٌ عَمِيقُ الْكَلَامِ: گہری بات کہنے
 والا۔
 عَمِلَ رَسَ عَمَلًا: کام کرنا۔ محنت کرنا۔
 لِلْاَمِيرِ عَلَیْ بِلَادٍ: عامل بننا۔ حاکم
 بننا۔ عَلَی الصَّدَقَةِ: صدقہ جمع
 کرنے کی کوشش کرنا۔ الْبَرَقُ: بجلی
 کا لگتا رہ جھکا۔ عَمِلَتْ الْكَلِمَةُ
 فی الْكَلِمَةِ: ایک کلمہ کا دوسرے میں
 اثر کرنا۔ اعراب دینا۔
 عَمَلَهُ: اجرت دینا۔ کَ عَلَی الْبَلَدِ:
 عامل بنانا۔ حاکم بنانا۔ کہتے ہیں: عَمِلَ
 فُلَانٌ عَلَیْھِمْ فُلَانٌ: حاکم بنایا گیا۔
 اَعَمَلَهُ: عامل بنانا۔ حاکم بنانا۔ اَعَمَلَ
 التَّوَمَّحَ: صدر نیرے سے مارنا۔
 الْاَلَّةُ او الْوَتَّاحُ: استعمال کرنا۔
 الْكَلِمَةُ فی الْكَلِمَةِ: کلمہ کو دوسرے
 کلمہ پر عامل بنانا۔ الرَّجُلُ: اجرت
 دینا۔
 عَامَلَهُ مُعَامَلَةً: عمل کی تکلیف دینا۔
 معاملہ کرنا۔
 تَعَمَّلَ: لکڑا۔ عمل کو برداشت کرنا۔
 مِنْ اَجْلِ فُلَانٍ او حَاجَتِهِ: کوشش
 کرنا۔ درپے ہونا۔
 تَعَامَلَ: الْقَوْمُ: بعض کا بعض کے ساتھ
 معاملہ کرنا۔

إِعْمَلْ - کام میں مضطرب ہونا۔ اثر قبول کرنا اپنے لیے کام کرنا۔

إِسْتَعْمَلَهُ - عامل بنانا۔ کام کرنے کو کہنا۔
إِسْتَعْمَلَ الْآلَةَ - آلہ استعمال کرنا۔
الثَّوْبُ - کپڑا استعمال کرنا۔ اُسْتُعْمِلَ
فُلَانٌ - شاہی کام میں سے کسی کام پر
متعین ہونا۔

الْعَمَلُ - مضم۔ ارادۂ کام کرنا۔ والعاملیۃ
وہ جس پر عامل والی ہو۔ ج۔ اَعْمَالٌ۔
أَعْمَالُ الْبَلَدِ - ملک کے مضافات۔
الْعَمَلُ - کاریگر۔ پسندیدہ کاریگر۔ بَرَقَ
عَمِلٌ - لگاتار چمکنے والی بجلی۔
الْعَمَلَةُ - مؤنث عَمِلٌ - وہ جو کیا جائے۔
الْعَمَلَةُ - ایک بار کا عمل۔ خیانت، چوری۔
الْعَمَلَةُ - عمل کی ہیئت، جو عمل کیا جائے
(ر۔ والعَمَلَةُ) عمل کی اجرت۔ عام
لوگ بمعنی نفوذ استعمال کرتے ہیں۔

الْعَامِلُ - فاعل۔ وہ کام کرنے والا شخص جو
کسی کے معاملات مالیہ وغیرہ میں متولی
ہو۔ ج۔ عَمَّالٌ وَعَامِلُونَ و
عَمَلَةٌ - رئیس، والی، حاکم، عَامِلٌ
الْمُؤْمِرُ - نیزے کے پھل کے قریب
کا حصہ۔

الْعَامِلَةُ - مؤنث عَامِلٌ - ج۔ عَامِلَاتٌ
وَعَوَامِلُ - عامِلَةٌ الْمُؤْمِرُ - نیزے
کے پھل کے قریب کا حصہ۔
الْعَوَامِلُ - پاؤں، کھیتی اور دائرہ چلانے
کے پیل۔

الْعَمَّالُ - صیغہ مبالغہ مؤنث۔ عَمَّالَةٌ
الْعَمَّالَةُ - پیشہ عامل۔ العَمَّالَةُ و
الْعَمَّالَةُ وَالْعَمَّالَةُ - اجرت
عامل۔ عام لوگ الْعَمُولَةُ کہتے ہیں۔
کمیشن ایجنٹ۔

الْعَمُولُ وَالْعَمِيلُ - عِنْدَ التَّجَارِ
ایجنٹ، آرٹھتی، شریک عمل۔ ج۔

عَمَلًا۔

الْمَعْمَلُ - کارخانہ۔ کام کرنے کی جگہ۔ ج۔
مَعَالِشٌ۔

الْمُعَامَلَاتُ - کاروباری معاملات۔ وہ
شرعی احکام جن کا تعلق دنیاوی معاملات
سے ہو جیسے خرید و فروخت کے
احکامات۔

الْمُسْتَعْمَلُ - جمع۔ استعمال کیا ہوا۔
الْيَعْمَلُ وَالْيَعْمَلَةُ - کام کرنے والا
اونٹ، اونٹنی۔ ج۔ يِعَامِلُ و
يَعْمَلَاتٌ۔

عَمِنَ رَضًا عَمِنَ رَسًا عَمِنَا -
بالمكان - اقامت کرنا۔

عَمِنَ وَاعْمِنَ - الرَّجُلُ - عَانُ جَانُ
کسی جگہ ہمیشہ رہنا۔

الْعَمُونَ - اقامت کرنے والا۔ ج۔
عَمِنٌ۔

عَمَهُ وَعَمَهُ (ف) س) عَمَهُادُ عَمُوَهَا
عَمُوَهِيَّةٌ وَعَمَهَا نًا و تَعَامَةً۔

جیران ہونا۔ گمراہی میں بھٹکنا۔ صفت
عَمِلَةٌ - ج۔ عَمِلُونُ، عَامِلَةٌ
ج۔ عَمَلَةٌ۔

عَمِلَةٌ رَسًا عَمَلًا - المكان - بے نشان
ہونا۔ صفت مذکر اَعْمَلَةٌ - صفت
مؤنث مَعْمَلَةٌ - ج۔ عَمَلَةٌ۔

عَمَلَةٌ - فاعل۔ فلان۔ ناحق ظلم کرنا۔
الْعَمَلَةُ - مضم۔ فقدان بصیرت۔

عَمِيَّ لَيْسَ تَعَمِيَّا - اندھا ہونا۔ دل کا
اندھا ہونا اور جاہل ہونا۔ عَنِ الشَّيْءِ
وَعِنْدًا كَ - ہدایت نہ پانا۔ عَمِيكَ۔

مضم ہونا۔ کہتے ہیں: عَمِيَّتِ
الْأَخْبَارُ عَنْ فُلَانٍ - کچھ پتہ نہیں۔
عَمِيَّ عَمَالِيَّةٌ - اصرار کرنا۔ گمراہ ہونا۔

عَمِيَّ يَدَوِيَّ عَمِيَّا - السَّحَابُ - بہر
پڑنا۔ المَوْبَجُ - جھاگ پھیلنا۔

فُلَانٌ - سخت گرمی میں آنا۔
عَمِيَّ تَعَمِيَّةٌ - المَعْنَى - معنی پوشیدہ
رکھنا۔ وَاَعْمِيَّ الرَّجُلُ - اندھا
کرنا۔ اندھا پانا۔

تَعَامِي - بتکلف اندھا بننا۔
تَعَمِيَّ تَعَمِيَّا - اندھا ہونا۔

إِعْتَمَى إِعْتِمَاءً - الشَّيْءُ - چننا،
ارادہ کرنا۔

الْعَمِيَّةُ وَالْعَمِيَّةُ وَالْعَمَالِيَّةُ وَالْعَمَالَةُ
گمراہی، گمراہی پر اصرار۔

الْعَمِيَّةُ وَالْعَمِيَّةُ - غرور۔ گمراہی۔
الْعَمِيَّ - اندھا۔ ج۔ عَمُونٌ - مؤنث
عَمِيَّةٌ - ج۔ عَمِيَّاتٌ۔

الْأَعْمَى - اندھا۔ ج۔ عَمِيَّاتٌ و
أَعْمَاءٌ وَعَمَاءَةٌ - مؤنث عَمِيَّاتٌ۔

الْأَعْمَى - جاہل۔ کہتے ہیں: رَجُلٌ
عَمِيٌّ الْقَلْبُ - جاہل مرد۔

الْعَامِيَّةُ - بہت گریہ و زاری کرنے
والی عورت۔

الْعَمَاءُ - بلند بادل۔ موسلا دھار برسنے
والا۔

الْأَعْمِيَانِ - سیلاب و آتش زدگی۔
الْيَعْمِيَّةُ - بے نشان زمین۔ ج۔ مَعَامِي

مکان، عَمِيَّ وَاَعْمَى - جہاں ہدایت
نہ ملے۔

الْعَامِيَّ - وہ شخص جو راہ کو نہ دیکھ سکے۔
الْمَعْمَى - مفع۔ مِّنَ الْكَلَامِ - چیتان
پسلی۔

عَنِ - حرف جر ہے۔ ذیل کے معانی کے
لیے آتا ہے۔

۱۔ مجاورت۔ جیسے تَدَخَّلَ عَنْ مَّكَانٍ
فِيهِ خَيْمٌ - اس جگہ سے چل دے،

جہاں ظلم ہوتا ہو۔
۲۔ بل جیسے يَوْمٌ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ
نَفْسٍ شَيْئًا - وہ دن جس روز کوئی





کسی کا بدلہ نہیں دے گا۔
۳۔ تعیل جیسے مَا فَعَلَ ذَٰلِكَ الْاَعْنِ
اضْطَاطًا۔ اس نے ایسا مجبور کیا۔
۴۔ بعد جیسے عَنْ قَلِيلٍ تَرَىٰ تَهْوِي
دیکھ کے بعد معلوم ہو جائے گا۔

۵۔ استعلاء جیسے أَحَبَبْتُ الْاِحْسَانَ
رَأَى الْفُقَرَاءَ عَنْ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ۔
میں نے فقیروں کے ساتھ اچھا سلوک
کرنے کو نماز پر ترجیح دی کبھی اسم ہو کر
جانب کے معنی دیتا ہے ایسے وقت
اس پر حرف جر داخل ہوتا ہے جیسے
جَلَسَ مِنْ عَنْ كَيْسَارِ الْخَلِيفَةِ۔
خلیفہ یائیں سمت بیٹھا۔

عَنْ دَنَضٍ عَنَّا وَعُنُونًا و
اَعْتَنَ۔ لَہُ الشَّيْءُ۔ سامنے ظاہر
ہونا۔ پیش آنا۔ عَنْ عَنِ الشَّيْءِ۔
اعراض کرنا۔ عَنِ فَلَانًا۔ کالی دینا۔
عَنْ وَعَنْ الْكِتَابَ عِزْوَانُ لَكُنَّا۔
وَعَلَيْتُ الْكِتَابَ بھی کہتے ہیں۔ ایک
تون کو یاد سے بدل دیتے ہیں۔

عَنْ وَعَنْ وَعَنْ۔ الدِّجَامُ۔ لگام
میں ڈور لگانا۔
عَنْ وَعَنْ۔ الْقَرْسُ۔ گھوڑے کو
لگام سے روکنا۔

عَائِلُهُ مُعَانَةٌ وَعِنَانًا۔ مقابلہ کرنا۔

الْعَانُ۔ قابلی رسی۔ پھیلا ہوا بادل۔

الْعَائِلَةُ۔ مؤنث العَانِ۔ بادل۔

الْعَيْلَةُ۔ رسی، اونٹ یا گھوڑوں کے لیے
کڑی کا باڑہ۔ پوٹھا ہٹسی رکھنے کا۔

الْعَنَانُ۔ بادل۔ وَالْعَنَانَةُ۔ بادل کا

ایک ٹکڑا۔ عَنَانُ السَّمَاءِ۔ آسمان

کی بلندی۔ عَنَانُ الدَّارِ۔ گھر کا کنارہ

گھر کا ارد گرد۔

الْعَوَانُ۔ مہم۔ لگام کی رسی۔ جہ۔ اَعْنَةُ

وَعُنُنُ۔ کہتے ہیں۔ هُوَ قَصِيرٌ

الْعَيْنَانِ۔ وہ بے خبر انسان ہے۔ و۔

رَجُلٌ كَلِيلُ الْعَيْنَانِ۔ شریف مرد۔

وَأَبَى الْعَيْنَانِ۔ خود دار۔ وَاَمْتَلَا

عَيْنَانَهُ۔ جب اپنی کوشش کو پسینچ

جائے۔ وَاَمْتَلَا عَيْنَانَهُ۔ تابع ہو گیا۔

هَمَّا يَجْرِيَانِ فِي عَيْنَانِ۔ دونوں

فضیلت میں برابر ہیں۔ جَوْنِي الْفَرْسُ

عَيْنَانَا۔ ایک چکر لگایا۔ کَبَا فِي

عَيْنَانِهِ۔ اپنے چکر میں گھوم کر کھا گیا۔ و۔

أَرْخَعُ مِنْ عَيْنَانِهِ۔ ڈھیل دے دو۔

شُرْكَةُ الْعَيْنَانِ۔ دو آدمیوں کا کسی

خاص مال میں شریک ہونا۔ الْعَيْنَانُ

سامنے آنے والی شے۔

الْعَيْنُ۔ سامنے آنے والی شے، کہتے ہیں۔

عَيْنَانَا أَنْ تَفْعَلَ كَذَا۔ انتہا یہ

ہے کہ تم ایسا کرو۔

الْاَعْنَانُ۔ اطراف شجر۔ اَعْنَانُ السَّمَاءِ۔

اطراف فلک، افق۔

الْعَيْنَانُ۔ بہت سبقت لے جانے والا۔

الْمَعْنُ۔ بیہودہ، معاملات میں دخل دینے

والا۔ خطیب، مؤنث مَعْنَةٌ۔

الْمَعْنُونُ۔ دیوانہ۔

عَنْبُ۔ انکرم۔ انکرم کی بیل میں انکروں

کا آنا۔

الْعَنْبُ۔ انکرم۔ جہ۔ اَعْنَابُ۔ ایک دانہ

کو عنبہ کہتے ہیں۔

الْعَنَابُ۔ انکرم کا بیچنے والا۔ عَنْبُ

الشَّعْبِ۔ کھو

الْعَنَابُ وَالْاَعْنَبُ۔ بڑی ناک والا۔

الْعَنَابُ۔ عنباب۔ ایک دوا۔ واحد۔

عَنْبَابَةٌ۔

عَنْبَرُ۔ الشَّيْءُ۔ غیر سے خوشبودار کرنا۔

الْعَنْبَرُ۔ ایک قسم کی خوشبودار۔

ایک بڑی قسم کی مچھلی۔ وہ ڈھال جو

عنبہ مچھلی کی جلد سے بنائی جائے۔ جہ

عَنْبَابُ۔

عَنْبَرُ الشَّيْءِ دَعْنَبَرْنَةُ۔ مروی کی سختی

عَنْبَرَةُ الْقَدَارِ۔ پیاز۔

الْعَنْبَرِيَّ۔ غیر سے معطر کی ہوئی شراب۔

عَنْتِ (دس) عَنَتَا۔ دشواری میں پڑنا۔

مصیبت سے ہلاک ہونا۔ گناہ کرنا۔

الشَّيْءُ خَرَابٌ ہونا۔ الْعُظْمُ۔ درستی

کے بعد ٹوٹ جانا۔ صفت عَنْتٌ۔

عَنْتُهُ۔ سختی کرنا۔ ایسی چیز پر لازم کر لینا،

جس کا کرنا مشکل ہو۔

عَنْتُ۔ الشَّيْءُ الْعُظْمُ الْمَجْمُورُ۔ درست

شدہ بڑی کوتاہ دینا۔

عَنْتُ۔ فِي الْجَبَلِ۔ پہاڑ پر چڑھنا۔

اَعْنَتُ۔ الْجَابِرُ الْكَسِيرُ۔ جڑے ہوئے

کو توڑنا۔ ٹوٹی چیز کی دیکھ بھال نہ

کرنے سے فساد کا زیادہ ہونا۔

الْوَاكِبُ الدَّائِبَةُ۔ جانور پر سختی

سے زیادہ لادنا۔ الرَّجُلُ۔ ہلاکت

میں ڈالنا

تَعْنَتُهُ۔ تکلیف پہنچانا۔ کسی کی لغزش کی

جستجو کرنا۔ تَعْنَتِ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ

فِي السُّؤَالِ۔ بطریق تبلیس سوال

کرنا۔

الْعَنُوتُ۔ دشوار گزار ٹیلہ۔

عَنْتَرُ عَنْتَرَةً۔ لڑائی میں بہادری کرنا۔

عَنْتَرَةٌ بِالْوَصْفِ نِزْهَةٌ مَارِنَا۔ عَنْتَرَةُ

الْعَنْتَرَةُ۔ لکھی بھنبھنانا۔

الْعَنْتَرَةُ وَالْعَنْتَرَةُ۔ لکھی۔ نیلی لکھی۔ واحد

عَنْتَرَةٌ ہے۔

عَنْتَلُ۔ الشَّيْءُ۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الْعَنْتَلُ۔ سخت۔ ضَبَاعٌ عَنَاتِلُ۔ وہ

بھج بھج شکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔

الْعَنْشَةُ الْعَنْشَةُ وَالْعَنْشَةُ۔ ایک

مخصوص گھاس، جبکہ وہ خشک اور

سیاہ ہو جائے، کھلی نام۔ جہ۔ عَنَاتٌ

الْعَنْشَوَةُ - الْعَنْشَوَةُ بِمَعْنَى عَنْشَةٍ
ج - عَنَّا فِي - الْعَنْشَوَةُ - كُطْرِي

کے بال -
عَنْبَجْ عَنْبَجًا وَعَنْبَجْ - الشَّيْءُ كَيْفِيَّتًا -
الدَّلْوُ دُولٌ كُورِي سَے باندھنا -
العِنَاجُ - درویشیت - وہ رسی جس کو
بڑے دُول کے نیچے باندھتے ہیں - ج
أَعْنَجَةٌ وَعَنْبَجٌ -
عَنْجَةٌ - الْهُودَجُ - ہودے کے
دروازے کا بازو -

العَنْجَبُجُ - بڑا -
العَنْجَبُجُ - جنگلی - بجان -

العَنْجُورُ - عمدہ گھوڑا، عمدہ اونٹ، اول
جوانی - ج - عَنَارِجِيَّةٌ -

عَنْجَرٌ عَنْجَرَةٌ - ہونٹوں سے سیٹی بجانا -
العَنْجُورَةُ - شیشی کا غلاف -

العَنْجُجَةُ - بڑی موٹی شے، اکھڑ مرد -
عَنْدٌ - ظرف مکان و زمان - جیسے وَقَفْتُ

عِنْدَ الْبَابِ وَسَا فَرْتُ عِنْدَ
مَغِيبِ الشَّمْسِ - من کے داخل

ہونے سے مجبور ہو جاتا ہے - جیسے
أَتَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ -

عِنْدَ رَنٍ مِنْ عِنْدِ دَسٍ عِنْدَ رَكٍ،
عَنْوَدٌ أَعِنَ الطَّلِيْقُ أَوِ الْقَصْدُ -

تجاوہ کرنا - ہٹ جانا - نائل ہونا -
الرَّجُلُ - جان بوجھ کر حق کی مخالفت

کرنا - صفت عَنِيدٌ - ج - عُنْدٌ -
ر - دَاعُنْدُ الْعِرْقُ - رگ سے

لگاتار خون بہنا - أَعْنَدَ فَلَانًا -
مقابلہ کرنا -

عَنْدَ رَنٍ، عَنْوَدًا - عَنْ أَحْصَانِهِ - سفر
میں علیحدہ ہو جانا -

عَانَدَهُ مُعَانَدَةً وَعِنَادًا - علیحدہ ہونا
مقابلہ کرنا - الشَّيْءُ - لازم ہونا -

الرَّجُلُ - کسی کے جیسا کام کرنا -

تَعَانَدَ - الْقَوْمُ - بعض کا بعض کی مخالفت
کرنا -

اِسْتَعْنَدَ - الْفَرَسُ - گھوڑے کا سرکشی کرنا
منہ زور ہونا - كَالْقِيءِ - غالب ہونا

- فَلَانًا - ارادہ کرنا -
الْعَانِدُ - فَا - میانہ روی سے ہٹنے والا -

ج - عُنْدٌ وَعَوَانِدٌ - کہتے ہیں -
طَلَعَتْهُ طَعْنًا عَانِدًا - دائیں بائیں

نیزہ مارنا - دَمٌ عَانِدٌ - ایک سمت
بہنے والا خون -

العِنْدُ - دل، معقول -
العِنْدُ - جانب کہتے ہیں "هُوَ عَيْشِي

وَسَطًا لَا عِنْدًا" - وہ بیچ میں چلتا
ہے - کنارے پر نہیں چلتا -

العِنْدُ وَالْعِنْدُ وَالْعِنْدُ - کونہ -
العَنْوُدُ - میانہ روی سے ہٹنے والا - ج

عُنْدٌ - کہتے ہیں سَكَابَةُ عَنْوُدٌ -
موسلا دھار برسنے والا - عَقْبِيَّةٌ

عَنْوُدٌ - دشوار گزار گھاٹی - رَجُلٌ
عَنْوُدٌ - جو شخص کسی کے ساتھ نہ اترے

بلکہ تنہا اترے -
عَنْدَرٌ - الْمَطَرُ - سخت بارش ہونا -

عَنْدَلٌ عِنْدَ لَهُ - الْهَزَارُ - بیل کا
چھبانا -

العَنْدَلِيْبُ - بیل - ج - عَنَادِلٌ -
العَنْدَمُ - دم الاخوین -

عَنْوَذَ رَنٍ عَنْوَا - نِزَہ مارنا - عَنْوَا
لَا عَتْنَزَا اِسْتَعْتَزَا - عَنَدُ -

علحدہ ہونا اور ایک گوشے میں اترنا
أَعْنَزَ - الشَّيْءُ - جھکانا -

تَعْتَزُ - لوگوں سے علیحدہ ہونا -
العَنْوُ - مہ - بکری، مادہ چکور، شکرہ مادہ

برنی، گدھ مادہ - ج - عِنَاوٌ دَاعُنُو
وَعَنْوُزٌ -

العَنْوَةُ - بکری -

الْعَنْوَةُ - دُنَا جِس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو -
عَنْوَةُ الْفَاسِ - بھاوے کی دھار -

ج - عَنْوٌ وَعَنْوَاتٌ -
العَنْوُزُ وَالْعَيْنِزُ - بتلائے مصیبت -

عَنْسَ رَضٍ، عَنْسًا - الْعُوْدُ - لکڑی کو
جھکایا - موڑا -

عَنْسَتُ (نَ مِنْ) عَنِسْتُ (رَ مِنْ) عُنُوسًا
عَنَاسًا - عَنِسْتُ دُعِيسْتُ و

أَعْنَسْتُ - الْجَارِيَةُ - لڑکی کا
بالغ ہونے کے بعد بغیر شادی کے رہنا -

صفت عَانِسٌ - ج - عَوَانِسٌ و
عُنُسٌ وَعُنُسٌ وَعُنُوسٌ، عُنُسٌ

الرَّجُلُ - بڑی عمر تک بغیر شادی کے
رہنا - صفت عَانِسٌ وَاَعْنَسَ -

الشَّيْءُ - متغیر کرنا - أَعْنَسَ الشَّيْءُ
وَجْهَهُ - بڑھاپے کا چہرے کو بدل

دینا - کہتے ہیں "فَلَانٌ لَمْ تَعْنَسْ
وَلَمْ تَعْنَسِ السِّنُّ وَجْهَهُ" -

کبر سنی نے فلاں کے چہرے کو متغیر نہیں
کیا - عُنُسُ الْجَارِيَةِ أَهْلُهَا -

لڑکی کو نکاح کرنے سے گھر والوں نے
روک رکھا - صفت مُعْنَسَةٌ - ج

مُعْنَسَاتٌ وَمَعَانِسٌ -
عَنِسَ دَسٍ، عَنَسًا - ہر وقت آئینہ دیکھنا

العَنْسُ - مہ - عَقَاب - اَوْثَنِي، طاقوڑ،
ج - عِنَاسٌ وَعُنُوسٌ -

العِنَاسُ - آئینہ - ج - عُنُسٌ -
عَنْشَى رَنٍ، عَنَشًا - الْعُوْدُ - لکڑی

کو موڑنا - جھکانا - الرَّجُلُ - تکلیف
پہنچانا - غضبناک کرنا -

عَانَشَهُ مُعَانَشَةً وَعِنَاشًا - لڑائی
میں ایک دوسرے سے لپٹنا -

مفاخرت کرنا -
رَاعَنَشَهُ - لڑائی میں ایک دوسرے سے

لپٹ جانا - ظلم کرنا -





تَعَانَقًا - ایک دوسرے سے معانقہ کرنا۔
تَعَتَشُ - المَال - ہر طریقے سے مال جمع کرنا۔

الْعُنْشُ - جبین کا۔
الْعُنْصُرُ وَالْعُنْصُرُ - جڑ - کہتے ہیں اَنَّهُ لَكُنْزُ الْعُنْصُرِ - وہ اصل کے اعتبار سے شریف ہے حرب، بہت ضرورت، ہیولے، مصیبت، مادہ جسم بسیط - جہ - عَصَا صِر - قدام کے نزدیک عنصر چار تھے، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔

عَيْنُ الْعُنْصُرَةِ - عیسائیوں کی ایک عید جو عید فصیح کے بعد ہوتی ہے اور یہودیوں کے نزدیک طور سینا پر نزول احکام شریعت کی یادگار میں عید ہے۔

الْعُنْصَلُ وَالْعُنْصَلُ وَالْعُنْصَلُ وَالْعُنْصَلُ - جنگی پناہ جس کو بَصْلُ الفار - بھی کہتے ہیں۔

الْعُنْصُورَةُ وَالْعُنْصُورَةُ وَالْعُنْصُورَةُ وَالْعُنْصُورَةُ - سے متفرق بال یا گھاس وغیرہ - جہ - عَنَاصٍ۔

الْعُنْطَبُ وَالْعُنْطَبَانُ وَالْعُنْطُوبُ - ایک قسم کی بڑی مونث - عُنْطُوبَةٌ - عُنْطُوبَةٌ - بہ - ٹھٹھا کرنا - بری بات سنانا۔

الْعُنْطُوانُ وَالْعُنْطُوانُ - فحش کینے والا۔
الْعُنْطُوانُ - ایک قسم کی کھٹی گھاس۔
الْعُنْطُوانَةُ - عُنْطُوانُ کا واحد ہے۔

عَنْعَنَ عَنْعَنَةً - ہمزہ کو عین کی طرح پڑھنا - الراوی - روایت کو عن فلان عن فلان کہہ کر بیان کرنا عَنْعَنَ دَن، عَنْقًا وَعَنْاقَةً - بالوجہ

وعلیہ - سختی کرنا - مَفَتْ عَنِيفٌ - جہ - عُنْفٌ -

عَنْفَةً وَأَعْنَفَةً - سختی سے معاملہ کرنا۔
عَنْفَةً - سختی سے جھڑکنا - عتاب کرنا۔

أَعْنَفَ الْأَمْرِ - سختی سے لینا۔
أَعْتَنَفَ الْأَمْرَ - سختی سے لیا - الشَّيْءُ - شروع کرنا - الْمَجْلِسُ - مجلس سے پھر جانا۔

الْعَنْفُ وَالْعِنْفُ وَالْعُنْفُ - سختی، سنگدلی۔

الْعُنْفَةُ وَالْعُنْفَةُ - ابتداء شروع الِاعْنَفُ - سختی سے پیش آنے والا۔
عُنْفَوَانُ الشَّيْبَابِ وَعُنْفُوَةٌ - ابتداء جوانی - عُنْفَوَانُ الْخَمِيرِ - شراب کی تیزی۔

الْمَعْنَفَةُ - سبب درستی۔
تَعْنَفَصَ - ڈینگیں مارنا - شے بکھارنا۔
الْعَنْفَفَةُ - داڑھی - کچھ - جہ - عَنَافِقُ -

عَنْقُ دَس، عَنَقًا - لمبی گردن والا ہونا۔
صفت آعَنْقُ -

عَنْقٌ - طَلْعُ النَّجْلِ - بھجور کا شگوفہ لمبا ہونا - عَنَقَةً - گردن پکڑنا۔
عَنْقٌ عَلَیْہِ - چلنا اور گردن اٹھا کر دیکھنا۔

عَانَقَهُ مَعَانَقَةً وَعِنَاقًا - بغل گیر ہونا۔
گئے لگانا - عَانَقَتِ الْإِبِلُ - اونٹوں کا تیز چلنا۔

أَعْنَقُ - التَّرْعُ - کھیتی کا لمبا ہونا - خوشہ نکالنا - الْكَلْبُ - بٹہ ڈالنا -
النَّجْمُ - غائب ہونا - آعَنْقَتِ الْبِلَادُ - دور دور ہونا - الدَّائِمَةُ - باور کا لمحہ لمحہ قدم ڈال کر تیز چلنا -
الْوَيْحُ - ہوا کا مٹی اڑنا۔

تَعَنْقُ - الیَبُوعُ - جنگلی چوہے کا بل

میں گھسنا۔

تَعَانَقُ - الرَّجُلَانِ - گلے ملنا۔

أَعْتَنَقُ - الشَّيْءَ - لازم ہونا - سختی سے پکڑنا - أَعْتَنَقَ الرَّجُلَانِ - لڑائی وغیرہ میں ایک نے دوسرے کے گلے کو پکڑا۔

الْعُنُقُ وَالْعُنُقُ - گلارہ مذکورہ مؤنث، جہ أَعْنَانُ - عُنُقُ كُلِّ شَيْءٍ - ہر چیز کا اول حصہ کہتے ہیں - مَاتَ خِلَافٍ فِي عُنُقِ الصَّيْفِ - فلاں ابتداء موسم گرما میں مر گیا۔ قَدْ أَخَذَ لِعُنُقِ السَّيِّئِينَ - وہ ساٹھ سال کے لگ بھگ پہنچ گیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عُنُقِ الدَّاهِرِ - زمانہ قدیم سے تھا۔ وَكَلَهُ عُنُقُ فِي الْخَيْرِ - اس کے لیے پہلے ہی سے نیکی میں سبقت ہے۔ وَهُوَ عُنُقٌ لَا يَلِيكَ - وہ لوگ تیری طرف مائل ہیں - تیرے منتظر ہیں - وَالْعُنُقُ - رئیس لوگ - جماعت۔

الْعَنْقُ - مہ - جانور کی تیز چال۔
الْعَنَاقُ - بچہ بزرگ جو سال بھر کا نہ ہوا ہو۔
جہ - أَعْنَقُ وَعُنُقُ - عَنَاقُ الارض - ایک شکاری جانور بلی کی قسم سے۔ الْعَنَاقُ - مصیبت - ر۔
وَالْعَنَاقَةُ - سختی و محرومی۔

الْأَعْنَقُ - لمبی گردن والا۔
الْعَنَاقُ - آعْنَقُ کا مؤنث - جہ - عُنُقُ عُنُقَاءُ مُعْرِبٍ وَالْعُنُقَاءُ الْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبَةُ - ایک قسم کی پرند - مصیبت، ٹیلہ کی چوٹی۔ اگر کسی چیز کی برپادی کی خبر دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں "حَلَقْتُ بِهٖ فِي الْجَوِّ عُنُقَاءُ مُعْرِبٍ" یعنی عناقے مغرب اس کو فضا میں لے اڑا۔ هَضْبَةٌ عُنُقَاءُ - بلند ٹیلہ۔

العَائِقَاءُ۔ جنگلی چوہے کا سوراخ۔
 الْعَيْنِقُ۔ گردن۔ بغل گیر ہونے والا۔
 الْمُحَقِّقُ۔ تیز دھڑنے والا۔ زمین کا سخت
 اور بلند حصہ۔ لمبی گردن والا۔ ج
 مَعَانِيْنُ۔
 الْمَعْنَقُ۔ عمدہ گردن والا گھوڑا۔ یا تیز دوڑنے
 والا۔ ج۔ مَعَانِيْنُ۔
 الْمَعْنَقَةُ۔ پٹ، مار۔
 عُنُقُشْ بِالْشَيْءِ۔ چمٹنا۔
 تَعْنُقُشْ بِهِ۔ سخت ہونا۔ زچ کھانا۔
 عَنَّاكَ (ن) عُنَّاكَ وَ عُنُوْكَ وَ تَعْنَاكَ۔
 الرَّمْلُ۔ ریت کا ڈھیر۔ ہو کر بلند ہونا
 صفت عَيْنِيْكَ۔ ج۔ عُنُكَ۔
 عَنَّاكَ الْبَابُ۔ دروازہ بند کرنا۔
 الرَّجُلُ سَفَرَ كَرْنَا۔ الغُورُ۔ حملہ کرنا
 اور پھرنا۔
 عَنَّاكَ۔ ملامت کرنا اور مشقت میں ڈالنا۔
 آعُنَّاكَ۔ التَّوَجُّلُ۔ ریت کے تودہ پر
 لوٹنا۔ الْبَابُ۔ دروازہ بند کرنا۔
 الْوَعْنُكَ۔ تودہ ریگ۔
 الْوَعْنُكِيُّوْنَ۔ مکڑی۔ ج۔ عَنَّاكَ بَ و
 عَنَّاكَ كَيْبُ۔
 الْعَنْكَبَةُ وَ الْعَنْكَبَاةُ وَ الْعَنْكَبَاةُ۔
 مکڑی مادہ۔ ج۔ عَنَّاكَ بَ و
 عَنَّاكَ كَيْبُ۔
 عَنَّاكَ۔ الْبَنَاتُ۔ پورودوں کو عئم سے
 رنگنا۔
 آعَنَّمَتْ۔ الْمَاشِيَّةُ۔ جانور کا عئم
 گھاس چرنا۔
 الْعَنَمُ۔ ایک درخت جس کا پھل سرخ ہوتا
 ہے جس کے ساتھ رنگے ہوئے پورودوں
 کو تشبیہ دیتے ہیں۔ وَاحِدُ الْعَنَمَةِ۔
 الْعَنَمُ۔ انگوڑ کی بیل کے دھاگے جو
 ٹیٹیوں سے پیٹے جلتے ہیں۔
 الْعَنَمَةُ۔ انسان کے ہونٹ کی پھٹیں۔

الْعَائِيْ۔ خوب صورت چہرہ۔ سُرخ
 جھلکتی ہوئی۔
 الْعَيْنُومُ۔ نرمیٹک۔
 عَنَّا يَعْنُوا عَنَّا وَ عُنُوْا۔ لہ
 خضوع کرنا۔ جھکنا۔ فرماں بردار ہونا۔
 ذلیل ہونا صفت عَائِنِ وَ عَيْنِيْ۔
 مُؤْنَتُ عَائِنِيَّةُ وَ عَيْنِيَّةُ۔ الشَّيْءُ۔
 ظاہر کرنا۔ عَزَّتِ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ
 سبزی اگانا۔ عَنَّاكَ الْأُمُورُ۔ غم میں
 ڈالنا۔ عَنَّا الْأُمُورُ عَلَيَّ۔ دشوار
 ہونا۔ عَزَّتِ الْأُمُورُ بِفُلَانٍ۔ نال
 ہونا۔ (د) عُنُوْا، الْكِتَابُ۔ عنوان
 لکھنا۔ خط پر پتہ لکھنا۔
 عَنَّا يَعْنُوا عُنُوْكَ۔ زبردستی لے لینا۔
 صلح سے لینا۔
 عَنَّا يَعْنُوا عَيْنِي يَعْنَا عَنَّا۔ فِي الْقَوْمِ
 قیدی ہونا۔ صفت عَائِنِ۔ ج۔
 عُنَّاكَ۔ مُؤْنَتُ عَائِنِيَّةُ۔ ج۔
 عَائِنَاتُ وَ دَعْوَانِ۔
 عَيْنِي تَعْنِيَّةُ۔ الرَّجُلُ۔ قید کرنا۔
 آعُنِيْ عَنَّا۔ الرَّجُلُ۔ فرما کر بند کرنا۔
 ذلیل کرنا۔ آعُنَيْتِ الْأَرْضُ
 النَّبَاتِ۔ اگانا۔
 الْعَائِيْ۔ ہٹا ہوا خون یا پانی۔
 الْيَعْنُو وَالْعَنَّا۔ گوشہ، کنارہ۔ ج۔
 آعْنَاءُ۔ کہتے ہیں جَاءَنَا آعْنَاءُ
 قِمْنِ النَّاسِ۔ ہمارے پاس مختلف
 قبیلوں کے لوگ آئے۔
 عُنُونُ عُنُوْكَ۔ الْكِتَابُ۔ دیباچہ
 لکھنا۔
 عُنُونُ الْكِتَابِ وَ عُنُونُهُ عَيْنَانُهُ
 عَيْنَانُهُ۔ کتاب کا دیباچہ عُنُونُ
 کُلِّ شَيْءٍ۔ جس کے ظاہر سے باطن کا
 حال معلوم ہو۔ کہتے ہیں الظَّاهِرُ
 عُنُونُ الْبَاطِنِ۔ ظاہر باطن کا آئینہ

ہوتا ہے۔
 عَنِ يَعْني عَيْنًا۔ الْأُمُورُ بِفُلَانٍ۔ واقع
 ہونا۔ نازل ہونا۔ فِيهِ الْأَكْلُ۔ مفید
 ہونا۔ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ۔ اگانا۔
 (د) عَيْنًا وَ عَيْنَانِيَّةً، بِمَا قَالَ كَذَا۔
 مراد لینا۔
 عَنِ۔ اللَّهُ بِهِ عَيْنَانِيَّةُ۔ حفاظت کرنا۔
 عَنِ يَعْني عَيْنَانِيَّةً وَ عَيْنًا۔ الْأُمُورُ
 فَلَانًا۔ مشغول کرنا۔ فکرمند کرنا۔ عَنِ
 بِالْأُمُورِ وَ عَنِ بِهِ عَيْنَانِيَّةُ يَعْني
 عَنَّا۔ مشغول ہونا۔ فکرمند ہونا۔
 مشقت برداشت کرنا۔ صفت۔
 عَائِنِ وَ عَيْنِ۔
 عَنِ يَعْني عَنَّا (د)۔ الْأَكْلُ فِيهِ۔
 مفید ہونا۔
 عَنِ يَعْني عَنَّا۔ ٹھکانا۔
 عَنِ تَعْنِيَّةُ، آعُنِيْ عَنَّا۔ الرَّجُلُ
 تکلیف پہنچانا۔ دشواریات کی تکلیف
 دینا۔ الْكِتَابُ۔ دیباچہ لکھنا۔ کہتے
 ہیں مَا آعُنِيْ تَعْنِيَّةً کسی شے کو
 فائدہ نہیں پہنچایا۔
 عَائِيْ مُعَانَاةً۔ الشَّيْءُ بِتَكْلِيفِ بَرَاةٍ
 کرنا۔ الرَّجُلُ مَالَهُ۔ مال کی حفاظت
 کرنا۔ مَلَاةً کرنا۔ الْهَمُومُ
 فَلَانًا۔ تَفَكُّرَاتُ کا پیش آنا۔
 تَعْنِيْ تَعْنِيَّةً۔ برداشت کرنا۔ ٹھکانا۔
 الْأُمُورُ۔ برداشت کرنا۔ تکلیف
 اٹھانا۔ فِي الْأُمُورِ۔ قصد کرنا۔
 الْحُشْيُ فَلَانًا۔ بخار بار بار آنا۔
 اَعْتَنِيْ اَعْتِنَاءً۔ بِالْأُمُورِ۔ اہتمام کرنا۔
 پرواہ کرنا۔ الْأُمُورُ۔ واقع ہونا۔
 نازل ہونا۔ کہتے ہیں هُوَ بِهِ آعُنِيْ
 وہ زیادہ اہتمام کرنے والا ہے۔
 الْعَيْنِيْ۔ اہتمام کرنے والا۔ مُؤْنَتُ۔
 عَيْنِيَّةُ۔



الْعَيْيَانُ - عنوان۔

الْعَيْيَةُ وَالْعَنَاءُ وَالْعَنَاءُ - تنہا۔

الْمَعْنَى - مقصود، معنی۔ الکلام۔ کلمہ کا مدلول۔ کلام کا مضمون۔ جر۔ معان معانی۔ انسانی صفات محمودہ کے لیے بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں "فَلَانٌ حَسَنٌ الْمَعْنَى"۔ فلاں اچھے اوصاف والا ہے۔

الْمَعْنَوِيُّ - منسوب بمعنی۔

مَعْنَى الْكَلَامِ، مَعْنَاهُ وَدَعْنِيَّتُهُ۔ کلام کا مدلول۔

عَهْدُ رَسٍّ، عَهْدًا - الْأَمْرُ - پھپھانا۔

الشيء - حفاظت کرنا۔ دیکھ بھال کرتے رہنا۔ فلاں وَعْدُهُ - حفاظت کرنا

اور پورا کرنا۔ عَهْدَ اللَّهِ - توحید بیان کرنا۔

فَلَانًا بِمَكَانٍ كَذَا - ملاقات کرنا۔ کہتے ہیں "عَهْدِي بِهِ قَرِيبٌ"

میری ملاقات اس سے قریب ہے۔

عَهْدِي إِلَى فَلَانٍ - وصیت کرنا، اور

شرط لگانا۔ اَلْيَهُ فِي كَذَا - وصیت

کرنا اور ذمہ دار بنانا۔

عَهْدًا - الْمَكَانُ - موسمِ ریح کی پہلی

بارش ہونا۔

عَاهِدَهُ - معاہدہ کرنا۔ حلیف بنانا۔

أَعْتَدَ - فَلَانًا مِنْ كَذَا - امین بنانا۔

بری کرنا۔ ضمانت کرنا۔

تَعَاهَدَ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے سے

معاہدہ کرنا۔ حلیف بنانا۔

تَعَاهَدَ وَتَعَاهَدَ، أَعْتَدَ - الشيء -

حفاظت کرنا۔ دیکھ بھال کرنا۔ عہد کرنا۔

تَجَدَّدَ كَرْنَا، تَعَاهَدَ وَأَعْتَدَ -

أَمْلَأَ كَه - اپنے املاک کی حفاظت و

اصلاح کرنا۔ تَعَاهَدَ بِي اسی معنی

میں مستعمل ہے۔

اِسْتَعَاهَدَ - فَلَانٌ مِنْ صَاحِبِهِ - عہد

لینا۔ اِسْتَعَاهَدَ فَلَانًا مِنْ نَفْسِهِ

اپنے حوادثِ نفس کا ذمہ دار بنانا۔

الْعَهْدُ - مِم - وفاء ضمان۔ امان۔ ذمہ۔ دوستی

وصیت۔ بیثاق، قسم، شاہی فرمان۔

جر۔ عَهْدُ - وہ مقام جہاں کسی چیز

کے بارے میں عہد کیا گیا ہو۔ دِلِّي

العہد۔ بادشاہ کا جانشین کہتے

ہیں "كَانَ ذَلِكَ فِي أَوْعَى عَهْدٍ

فَلَانٍ - فلاں کے دور میں تھا۔

عَهْدِي بِهِ أَنَّهُ لَكَرِيْمٌ - میرے

علم میں وہ کریم ہے۔ هُوَ قَرِيبٌ

العہد بكذا۔ وہ قریب الحال ہے۔

عَلَى عَهْدِ اللَّهِ لَا فُجَاءَكَ كَذَا - قسم

بخدا میں ایسا کر لوں گا۔ کہتے ہیں "هَتَّى

عَهْدِكَ بِفُلَانٍ - تم نے اس کو

کب دیکھا۔ الْعَهْدُ الْقَدِيمُ - بائبل

کی وہ کتابیں جو مسیح علیہ السلام سے

پہلے لکھی گئیں۔ الْعَهْدُ الْجَدِيدُ -

بائبل کی وہ کتابیں جو حضرت عیسیٰ کے

بعد لکھی گئیں۔

الْعَهْدُ وَالْعَهْدَةُ وَالْعَهْدَةُ - ریح کی

پہلی بارش۔ جر۔ عَهْدًا -

الْعَهْدَةُ - فصلِ ریح کی پہلی بارش۔

الْعَهْدَةُ - ضمان، کفالت، اصلاح کے

لیے واپسی۔ کہتے ہیں "بِي فِي الْأَمْرِ

عَهْدَةً" - میں اصلاح کے لیے عنقریب

لوگوں کا۔ خطایا عقل کا نقص۔ کہتے

ہیں "فِي خَطْبِهِ عَهْدَةٌ" - اس کا

خطرہ دی ہے۔

العہد - عہدے کو پسند کرنے والا۔

معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا۔

الْعَهْدَاتُ - ضمانت، کفالت۔

العہد - معاہدہ کرنے والا۔ معاہدہ

کیا ہوا۔ پرانا۔

المعہد - وہ جگہ جہاں کوئی چیز معہود ہو

لوگوں کی واپسی کی جگہ۔ جر۔ مَعَاهِدُ۔

الْمَعْهُودُ - منع، معروف و مشہور۔

عَهْدَرَفٍ، عَهْرًا وَعَهْرًا وَعَهْرًا

عَهْرًا وَعَهْرًا وَعَهْرًا (س)

عَهْرًا - ایہا۔ زنا کے لیے جانا۔

صفت مذکر عاھر۔ جر۔ عَهْرًا

صفت مؤنث عاھرہ و عاھرہ

جر۔ عَوَاهِرُ۔

عَاھَرَهَا عَھَرًا۔ زنا کے لیے جانا۔

العہر۔ زنا کے لیے جانے والا۔ زنا کار۔

العاہل۔ بڑا بادشاہ۔ بے جا و ندرت۔

جر۔ عَوَاهِلُ۔

عَمَنَ رَن، عَهْنًا - بِالْمَكَانِ - اقامت

کرنا۔ مِنَ الْمَكَانِ - نکلنا۔ فِي الْعَمَلِ

کوشش کرنا۔ اِلَى فَلَانٍ - عہدینہ۔

- بِفُلَانٍ مُرَادًا - جلدی پورا کرنا۔

- الشیء - ہمیشہ ہونا اور ثابت ہونا۔

عَهْنَتْ (رَن) عَهْنًا - جَرَادًا

التَّخِيل - کجھڑ کا درخت خشک ہونا۔

عَمَنَ (رَن) عَهْنًا - الْقَهْيُوبُ - شاخ

کا لچکنا اور ٹوٹنے کے قریب ہونا۔

عَمَنَ (رَن) عَهْنًا - كَهْ كَذَا - جلدی

کرنا۔ الشیء - حاضر ہوا۔

الْعَهْنُ - اُون - رنگی ہوئی اُون - جر۔

عَهْنٌ - کہتے ہیں "هُوَ عَهْنٌ مَالٍ"

وہ مال کا بہترین منتظم ہے۔

الْعَهْنَةُ - شاخ کی لچک جو ٹوٹنے کے

قریب ہو۔

الْعَهْنَةُ - اُون - رنگی ہوئی اُون کا کڑا۔

ایک درخت جس کا سرخ پھول ہوتا ہے

العَاھِنُ - فَا - فقیر حاضر ثابت۔ جلدی

کرنے والا۔ ڈھیلا۔ کاہل۔

العَوَاهِنُ - درخت غرام کی خشک شاخیں

عَاھِنَةٌ کی جمع ہے۔ کہتے ہیں "رَحَى

الکَلَامَ عَلَى عَوَاهِنِهِ" - جو کچھ منہ پر آیا

کہہ دیا خواہ صحیح ہو یا غلط۔

عَاتٌ يَكُونُ عَوْثًا وَعَوْثٌ - فَلَانًا.
عَوْثٌ كَذَا - بٹا دینا، یہاں تک کہ متغیر
ہو جائے۔ عَوْثٌ - دیر کرنا۔

تَعَوَّثٌ - متغیر ہونا۔
المَعَاثُ - مذہب، مسلک، گنجائش۔
کہتے ہیں: "إِنَّ لِي عَنْ هَذَا الْأَمْرِ
لَمَعَاثًا" میرے لیے اس میں گنجائش
ہے۔ اس لیے کہ اس کا چھوڑنا ممکن
نہیں ہے۔

عَاجِرٌ يَعُوجُ عَوْجًا وَمَعَاجِرًا - بِالْمَكَانِ
اقامت کرنا۔ فَلَانًا بِالْمَكَانِ - مقيم
کرنا۔ السَّائِرُ هَيْرًا - اِلَى أَوْ عَلَى
المَكَانِ - مائل و متوجہ ہونا۔ فَلَانٌ
عَمَّا عَزَمَ عَلَيْهِ - بجنہ ارادے سے
ہٹ جانا۔ البعيرُ - اونٹ کو لگام
سے پھیرنا۔ کہتے ہیں: "مَا أَعْوَجُ
بِكَلَامِهِ" اس کی بات کی میں ہمدرد
نہیں کرتا۔ عِجَاجًا وَعَوْجًا - اِدْبَارًا
مائل ہونا۔

عَوَجٌ يَعُوجُ عَوْجًا - الْعُودُ وَتَحْوَةٌ
لکڑی کا ٹیڑھا ہونا۔ الْإِنْسَانُ - بدخلق
ہونا۔ صفت أَعْوَجُ
عَوَجٌ تَعَوَّجًا - الْعُودُ وَتَحْوَةٌ - لکڑی
کو ٹیڑھا کرنا۔ الْعَصَا وَتَحْوَةٌ -
باغی و انت جڑنا۔ صفت مفعول
(مُعَوَّجَةٌ) دسکون عین، الناقلة
اونٹنی کو پھیرنا۔ عَوَجَهُ عَنِ الشَّيْءِ -
باز رکھنا۔

تَعَوَّجَ تَعَوَّجًا وَاعْوَجَ اعْوَجَاجًا -
الْعُودُ - لکڑی ٹیڑھی ہونا۔
الْعَاجِرُ - لا محقق دانت، العَاجِزُ - لا محقق
دانت کا ٹکڑا۔

الْعَوَاجِرُ - لا محقق دانت کا بیچنے والا۔
الْعَوَجُ - ٹیڑھا پن، پیچیدگی۔

الْعَوَجَاءُ مَوْنٌ أَعْوَجٌ - كُن - دُبَلِ
اونٹنی، جر، عَوَجٌ -

المَعَاجِرُ - مس، ٹھیکے کی جگہ۔
عَادَةٌ يَعُودُ عَوْدًا - بٹانا۔ عَادَ
السَّائِلُ - واپس کرنا۔ عَادَ فَلَانًا
بِالْمَعْرُوفِ - احسان اور بھلائی کرنا۔
عَادَ يَعُودُ عَوْدًا، عَوْدَةً وَمَعَادًا -
- لکڑی اور اِلَى كَذَا کسی کی طرف
مائل ہونا۔ اعراض کے بعد واپس ہونا۔
کہتے ہیں: "عَادَ عَلَيَّ مِنْ فُلَانٍ
مَكْرُودٌ" - فلان کی جانب سے مجھے
تکلیف پہنچی۔

عَادَ يَعُودُ عَوْدًا وَعِيَادًا - الشَّيْءُ -
دوبارہ کرنا۔ اسی سے ضرب المثل
ہے: "الْعُودُ أَحْمَدُ، عَادَ الْأَمْرُ
كَذَا" - یعنی صَارَ - یہ افعال ناقصہ
سے ہے۔ کبھی ایک حالت سے دوسری
حالت کی طرف انتقال کے لیے آتا
ہے۔ جیسے عَادَ فَلَانٌ شَيْخًا -
فلان جوان سے بوڑھا ہو گیا۔

عَادَ عَوْدًا - عادت بنالینا۔
عَادَ يَعُودُ عَوْدًا وَعِيَادًا، عِيَادَةً
وَعَوَادَةً - المریض، بیمار پر سی
کرنا۔ صفت مکرر عَائِدٌ - جر۔
عَوَادٌ، عَوْدٌ، عَوْدٌ - صفت مکرر
عَائِدَةٌ - جر۔ عَوَادٌ - صفت
مفعول، مَعُودٌ وَمَعُودٌ -

عَوْدٌ - فَلَانًا كَذَا - عادی بنادینا۔
البعيرُ - اونٹ کا بوڑھا ہونا۔
الرجلُ - عمر رسیدہ ہونا۔
عَبْدٌ تَعَبِيدًا - عید میں حاضر ہونا۔
عَادَ عَادَةً وَمَعَادَةً - الرجلُ
پہلے معاملہ کی طرف واپس ہونا۔
الشَّيْءُ - عادت بنالینا۔ کہتے ہیں۔
عَادَتُهُ الْحُلِي - بار بار بخار آیا۔

عَادَ كَذَا بِالسَّأَلَةِ - بار بار
سوال کرنا۔

أَعَادَ إِعَادَةً - الْأَمْرَ وَالْكَلامَ -
لوٹانا، دوبارنا۔ الشَّيْءُ - عادت بنا
لینا۔ طاقت رکھنا۔ الشَّيْءُ - اِلَى
مَكَانٍ - اس کی جگہ کی طرف لوٹنا۔
کہتے ہیں: "فَلَانٌ مَا يُعِيدُ وَمَا
يُبْدِي" - کوئی جیل نہیں کر سکتا۔
رَأَيْتُ فَلَانًا مَا يُبْدِي وَمَا يُعِيدُ -
کچھ بات نہیں کرنا۔ نہ ابتداءً، نہ
انتهاءً۔

تَعَوَّدَ تَعَوَّدًا - المریض، بیمار پر سی کرنا
- الشَّيْءُ - عادی ہونا۔

اِعْتَادَ اِعْتِبَادًا - الشَّيْءُ - عادی ہونا۔
تَعَاوَدَ - الْقَوْمُ فِي الْحَوْبِ - ہر گروہ
کا اپنے ساتھیوں کے پاس واپس لوٹنا۔
اِسْتَعَادَ اِسْتِعَادَةً - لوٹنے کی درخواست
کرنا۔ الشَّيْءُ فَلَانًا وَمِنْ فُلَانٍ -
لوٹنے کو کہنا۔ الشَّيْءُ - عادی ہونا۔
خوگر ہونا۔

عَادَ - عرب باندہ کا ایک شخص، ایک پرانا
قبیلہ جو اسی کے نام سے مشہور ہے
کہتے ہیں: "مَا أَدْرِي أَمَى عَادٍ هُوَ"
مجھے نہیں معلوم، وہ کون ہے۔

العَادِي - جس کام کی عادت ہو۔ پرانی
چیز۔ قدیم اقوام کے کھنڈرات - جر۔
عَادِيَاتُ -

الْعُودُ - مس۔ بوڑھا اونٹ، بوڑھی بکری
جر۔ عَوْدَةٌ - پرانا رستہ، کہتے ہیں
رَجَعَ عَوْدًا عَلَى بَدْعٍ أَوْ رَجَعَ
عَوْدًا عَلَى بَدْعِهِ - اس کا سفر ختم
نہیں ہوا اور واپس آ گیا۔

الْعُودُ - لکڑی، کٹی ہوئی شاخ - ایک قسم
کی خوشبو جس کو بطور بخور استعمال
کرتے ہیں۔ زبان کی جڑ کی ہڈی - سارنگی۔





ج۔ عَيْدَانِ، اَعْوَادُ، اَعْوُدُ۔
 عَوْدُ الصَّلَيبِ، عَوْدُ الْقَرْحِ، عَوْدُ
 الْاُجْبَارِ۔ دواؤں کے نام۔
 الْعَيْدُ۔ عید۔ ہر وہ دن جس میں کسی بڑے
 آدمی یا کسی بڑے واقعہ کی یاد منائی
 جائے۔ کہتے ہیں کہ عید کو اس لیے عید
 کہتے ہیں کہ وہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے
 دراصل عَوْدُ تھا، اس کی جمع حسب
 قاعدہ اَعْوَادُ ہونی چاہیے تھی، مگر
 عود بمعنی لکڑی کی جمع سے فرق کرنے
 کے لیے اَعْيَادُ آتی ہے۔ الْعَيْدُ۔
 بار بار آنے والا مرض یا غم وغیرہ۔
 الْعَادَةُ۔ عادت۔ ج۔ عَادَاتُ، عَيْدُ،
 عَادُ، عَوَائِدُ، رُكُوبَا عَوَائِدُ
 عَائِدَةُ کی جمع ہے،
 الْعَوَادُ۔ ساری بچائے والا۔
 الْاَعْوُدُ۔ زیادہ مفید و النفع، کہتے ہیں
 ”هَذَا اَعْوُدٌ عَلَيْكَ“ یہ تمہارے
 لیے نافع ترین ہے۔
 الْعَائِدَةُ۔ مُؤْنِتُ عَائِدُ۔ ج۔ عَوْدُ و
 عَوَائِدُ و عَائِدَاتُ۔ بھلائی، صلہ
 مہربانی، منفعت۔ ج۔ عَوَائِدُ۔
 الْعَوَائِدُ۔ محمول۔
 الْعَوَادُ۔ مہربانی، بھلائی کا کام۔ کہتے ہیں
 ”اِنَّ لَكَ رَعْنَدًا عَوَادًا اَحْسَنًا“
 ہمارے پاس تمہارے لیے وہ ہے جو
 تم پسند کرو عوادِ ثلثت عین کے
 ساتھ آتا ہے،
 الْعَوَادَةُ۔ ہر جو ایک مرتبہ لانے کے
 بعد دوبارہ تھان کے لیے لایا جائے۔
 کہتے ہیں ”لَيْسَ الْعَوَادَةُ لَكَ الْاَعْوُدُ
 وَالْعَوْدُ نَجْ“۔ تمہارے لیے وہی کا
 حق ہے۔
 الْمَعَادُ۔ مہر۔ لکڑی کی جگہ آخرت جگہ
 ج۔ (وَالْمَعَادَةُ) روستہ، نوحہ کرنے

کی جگہ۔ ج۔ مَعَاوِدُ۔
 الْمُعِيدُ۔ ف۔ حَافِظُ، تجربہ کار، عالمِ بانور۔
 بار بار جہاد کرنے والا۔ کہتے ہیں فَرَسٌ
 مُبْدِئٌ مُعِيدٌ۔ سدھایا ہوا گھوڑا۔
 الْمَعَاوِدُ۔ ف۔ ہمیشگی کرنے والا۔ اپنے
 کام میں ماہر۔ جوامرد۔
 الْمُتَعِيدُ۔ غضب ناک، سخت ظالم۔
 عَادُ يَعُوْدُ عَوْدًا وَمَعَادًا، عَيْدًا
 مُعَادَةً، تَعُوْدُ۔
 اِسْتَعَادَ۔ يَفْلَانُ مِنْ كَذَا۔ پناہ مانگنا
 عَادَ بِالشَّيْءِ۔ لازم ہونا۔
 عَوْدُ تَعْوِيْدًا، اَعَادًا، عَادَةً۔
 اَعْوَدَ اِعْوَادًا۔ الرَّجُلُ جَفَلَتْ
 كُنَا۔ دعا کرنا۔ اُعِيْدُكَ بِاللّٰهِ
 کنا۔ جادو کرنا۔ عَوْدُ الرَّجُلِ كَيْسِي
 کو تعویذ پہنانا۔
 اَعَادَ الْغُومُ۔ ایک دوسرے کی پناہ
 لینا۔ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا۔
 الْعَوْدُ۔ پناہ، کہتے ہیں۔ ”عَوْدُ بِاللّٰهِ
 مِنْكَ“ میں تم سے خدا کی پناہ
 مانگتا ہوں۔
 الْعِيَادُ۔ مہر۔ پناہ کی جگہ۔ کہتے ہیں۔
 الْعِيَادُ بِاللّٰهِ مِنْكَ۔ میں تم سے
 اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔
 الْعَوْدُ۔ جائے پناہ۔ کراہت۔ درختوں
 سے گرے ہوئے پتے۔ ناکس و
 فرومایہ لوگ۔
 الْعَوْدَةُ۔ ج۔ عَوْدُ۔ وَالْتَعْوِيْدُ۔ ج۔
 تَعَاوِيْدُ وَالْمَعَادَةُ۔ ج۔ تَعَاوِيْدُ
 تعویذ، وہ اسما و آیات، جو دفع
 مرض کے لیے گلے وغیرہ میں باندھے
 جاتے ہیں۔
 الْعَوَادُ۔ کراہت، کہتے ہیں ”مَا تَرَكْتُ
 فُلَانًا اِلَّا عَوَادًا اِمْنَةً“۔ فلوں کو
 میں نے صرف کراہیت کی بنا پر

چھوڑا۔
 الْعَائِدُ۔ ف۔ ج۔ عَوْدُ۔ نئی جننے والی
 برنی، اونٹ یا گھوڑا۔ ج۔ عَوْدُ و
 عَوْدَانُ۔ جہر۔ عَوْدَاتُ۔
 الْعَائِدَةُ۔ مُؤْنِتُ عَائِدُ۔ ج۔ عَوَائِدُ
 و عَائِدَاتُ۔ الْعَوَائِدُ۔ چار
 ستارے جن کے درمیان میں ایک
 ستارہ اَبَع نام کا ہے۔
 الْمَعَادُ۔ مہر۔ پناہ گاہ۔ جادو۔ کہتے ہیں
 ”مَعَادُ اللّٰهِ وَمَعَادُ وَجْهِ اللّٰهِ و
 مَعَادَةُ اللّٰهِ وَمَعَادَةُ وَجْهِ اللّٰهِ
 اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔
 الْمَعُوْدُ۔ پڑکا ڈالنے کا مقام۔ تعویذ
 لڑکانے کا مقام۔ گھروں کے آس پاس
 اونٹوں کی چراگاہ۔
 الْمَعُوْدُ وَالْمَعُوْدُ وَالْعَوْدُ۔ کانٹوں یا
 درختوں کی جڑیں۔ پتھر کے نیچے کی
 نباتات۔
 عَارَةُ يَعُوْرُكَ عَوْرًا۔ کاناکر دینا۔ عَارُ
 الشَّيْءِ۔ لے جانا اور تلف کر دینا۔
 وَاَعَارَ عَيْنَ الْمَاءِ اَوْ الذَّرَكِيَّةَ۔
 پانی کے چشمے یا کنویں کو بند کر دینا۔
 عَارَتْ عَيْنَ الْمَاءِ اَوْ الذَّرَكِيَّةَ۔
 پانی کے چشمے کا کنویں کا بند ہونا۔
 عَوْرَ يَعُوْرُ عَوْرًا وَاَعُوْرَ۔ کاناکر دینا۔
 صفت مذکر اَعُوْرُ۔ صفت مؤنث۔
 عَوْرَاءُ۔ ج۔ عَوْرُ و عَوْرَانُ۔
 عَوْرَةُ۔ کاناکرنا۔ عَيْنُ الْمِرِّ۔ باز
 رکھنا۔ عَوْرُ عَلِيٍّ اَمْرٌ۔ تجاہت
 ظاہر کرنا۔ عَوْدُ الْمَكِّيَّةِ۔ ہیمنوں
 کا اندازہ لگانا۔ عَيْنُ الْبَيْتِ۔ کنویں
 کو مٹی سے بھر دینا۔ عَيْنُ فُلَانٍ۔
 دوسرے کی طرف سے جھوٹ بولنا۔
 فُلَانًا لَوْ طَافَ بِهَا لَمَرَدَ بِهَا بِرِي
 نہ کرنا۔

أَعْوَرَةٌ رَعْوَرًا - کان کر دینا - أَعْوَرُ
الشیءُ - ظاہر ہونا، چھپے ہوئے اعضاء
کا ظاہر ہو جانا -

أَعْوَرُ - العارِسُ - سوار میں نیزہ لگنے کی
جگہ کا واضح ہونا - الرَّجُلُ - شک
کرنا -

أَعَارَهُ إِعَارَةً - الشیءُ دَمِنَ الشیءِ -
مانگی ہوئی چیز دینا - عَاوَرُ الشیءِ -
انتظار کرنا

عَاوَرَهُ - الشیءُ مُعَاوَرَةً - مانگی ہوئی چیز
دینا - عَاوَرُ الشیءِ - انتظار کرنا - عَاوَرَهُ
الشمسُ - انتظار کرنا - عَاوَرَهُ
الشیءُ - جیسا کوئی کرے ویسا ہی اس
کے ساتھ معاملہ کرنا -

عَاوَرُو عَاوِرًا - المکائیلُ - پیمانوں کا
اندازہ کرنا -

رَعَوَرًا - کانا ہونا رَعَوَرَتِ دَاعَوَرَتِ
العیُنُ - آنکھ کافی ہونا -

تَعَوَرُ - العارِیَّةُ - کوئی چیز مانگنا - (ر - و
تَعَاوَرُوا رَعَوَرًا - القومُ الشیءُ -

باری باری لینا - دست بدست لینا -
کہتے ہیں: تَعَاوَرَتِ الرِّیاحُ رَسَمًا
الدَّائِرَةِ مکان کے نشانات و آثار پر

مختلف قسم کی ہواؤں رکھی جنوبی، کبھی
شمالی، کبھی غریبی اور کبھی شرقی،
کا چلنا -

اسْتَعَوَرُ - الرَّجُلُ - تنہا ہونا -
اسْتَعَارَ - الشیءُ مِنْ فُلَانٍ وَاسْتَعَارَ
فُلَانًا الشیءُ - کسی سے کوئی چیز عاریہ

مانگنا، اسی سے ہے - آدِی الدَّهْرُ
یَسْتَعْرِیْ فِی شِیْءٍ - میں دیکھتا ہوں
کہ زمانہ میرے کپڑے عاریت دیتے کو

کہتا ہے، یہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ
آدمی بوڑھا ہو جائے اور اسے موت
کا خوف ہو -

الْعَوَرَةُ - وہ خلل جو سرحدات پر ہو، اور
جس سے ڈر ہو - الْعَوَرَةُ مِنَ
الرِّجَالِ - شکات - مِنَ الشَّمْسِ

جلنے طلوع وغروب، ہر وہ امر جس
سے شرم کی جلنے، انسان کے وہ عضو
جن کو شرم کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے -

جَرَّ عَوْرَاتٍ دَعَوْرَاتٍ -
الْعَاوِرُ - جس کی آنکھ میں تنکا ہو، آنکھ
کا دکھنا - تنکا، ہرگز نہیں دیکھنا -

تکلیف دہ - الْعَاوِرُ مِنَ الْبُحْرَانِ
أَوِ الْجَحَارَةِ - تیرا پتھر جس کا
پھینکنے والا معلوم نہ ہو - کہتے ہیں: -

أَصَابَهُ سَهْمٌ أَوْ حَبٌّ عَاوِرٌ -
اس کو ایسا تیر یا پتھر لگا جس کا پھینکنے
والا معلوم نہیں -

الْعَاوِرَةُ مِنْ عَاوِرٍ كَثْرَتٍ - کہتے ہیں
لَمْ يَمِنْ الْمَرْءُ عَاوِرَةً فَهِيَ تَبْهَتُ -

اس کے پاس اتنا مال ہے جو آنکھوں
کو بھر دیتا ہے - عَیْنُ عَاوِرَةٍ -
تنگے والی آنکھ - جَرَّ عَوَائِرُ -

الْعَوَائِرُ مِنَ الْجَوَادِ - ٹڈیوں کی
مختلف ڈائریں -

الْعَارَةُ الْعَارِيَّةُ الْعَارِيَّةُ - مانگی ہوئی
چیز - وہ چیز جس کا آپس میں لین دین
کریں - جَرَّ عَوَارٍ وَعَوَارِيَّ -

الْعَوَارُ - بتثلیث العین - عیب، کپڑے
کا پھٹن -

الْأَعْوَرُ - کانا - مَوْنُ عَوْرَاءُ - جَرَّ عَوْرٍ،
عَوْرَانٍ، عِیرَانٍ، الْمَعَانِ الْعَوْرُ -

مشکل معانی - فَلَاحُ عَوْرَاءُ - بے
آب جنگل - کَلِمَةُ عَوْرَاءُ - بری بات
الْعَوْرُ - کُتَا - ردی ضعیف، بزدل -
بری ہدایت دینے والا - کتاب بھٹی
ہوئی - وہ شخص جس کا سگ بھائی نہ
ہو - وہ راہ جس میں کوئی نشان نہ ہو -

جَرَّ - آعَاوَرُ -

الْعَوْرُ - ردی بات، عادت - شِئٌ عَوْرٌ
وہ شے جس کا کوئی نگہبان نہ ہو - مَوْنُ

عَوْرَةٍ -

الْعَوْدُ - کُتَا -

الْعِیرَانُ - ٹڈیوں کی مختلف ڈائریں -

الْعَوَارُ - تنکا، ابابیل، راہ سے نادانفت
کُتَا - بزدل - جَرَّ عَوَارٍ وَیَدُ -

الْمُعَارُ - گھوڑا جو ہلا کیا گیا ہو - بعض کے
نزدیک دُم نچے ہوئے گھوڑے کو
کہتے ہیں -

السُّعُورُ - مِنَ الْفُرْجَةِ - خوفناک، رَجُلٌ
مُعُورٌ - بری سیرت والا - شِئٌ
مُعُورٌ - جس کا کوئی نگہبان نہ ہو -

عَاوَرُ یَعُورُ عَوْرًا - الشیءُ - مشکل ہونا -
باد جو ضرورت کے پتے کا کیا ہے ہونا
- الزمیر - سخت ہونا - الرَّجُلُ

محتاج ہونا - صفت عَوْرٌ وَعَوَارٌ
أَعْوَرُ -

أَعْوَرُ رَعَوَرًا - الرَّجُلُ - محتاج اور
بد حال ہونا صفت مُعُورٌ وَمُعُورٌ
أَعْوَرَةُ الْمَطْلُوبُ - مقصود کا عاجز

کر دینا - اور حصول کو مشکل بنا دینا -
أَعْوَرُ فِی الشیءِ - محتاج ہونا اور قادر
نہ ہونا - أَعْوَرُ الشیءُ - دشوار ہونا -

الدَّهْرُ فَلَاحًا - زمانے کا کسی کو
محتاج کر دینا -

رَعَوَرًا رَعَوَرًا - جلد کرنا بد حال ہونا -
الْعَوْرُ - مع - دانہ انگور - واحد عَوْرَةٍ
الْعَوْرُ - ضرورت، تنگی -

الْمُعُورُ وَالْمُعُورَةُ - پرانا بوسیدہ کپڑا -
وہ کپڑا جس سے دوسرے کپڑے کی حفاظت
ہو - جَرَّ مَعَاوِرٌ وَمَعَاوِرَةٌ -
عَاسٌ یَعُوسُ عَوَسًا وَعَوَسَانًا - شب
کے وقت چکر لگانا - عَلِیَّ عِیَالِهِ - ادا





کے لیے نیت سے کمانا۔ عیالہ۔
خوارک دینا۔ عوسا و
عیالہ۔ الذئب۔ بھیڑیے کا رات
میں خوارک تلاش کرنا۔ عوسا
الشیء۔ تعریف کرنا۔ معیشتہ
درست کرنا۔

عوس یعوس عوسا۔ بنستے وقت
رخسارے میں گڑھا پڑنا۔ صفت
اعوس۔

العوس۔ سفید مینڈھے، نسبت کے لیے
عوسیٰ کہتے ہیں۔ کبش عوسیٰ۔
الحواس۔ مبالغہ کا صیغہ ہے۔

عاص یعاص وعوص یعوص عیاصا
وعوصا۔ الشیء۔ سخت ہونا۔
مشکل ہونا۔ الکلام۔ کلام کا سمجھنے
میں دشوار ہونا۔

اعصاص اعیصاصا۔ الرمز عکبہ۔
سخت ہونا، دشوار ہونا۔ پیچیدہ ہونا۔ جس
کی بنا پر صواب کو نہ پایا جاسکے۔

عوص۔ عمل و قوت میں راہ راست پر نہ
ہونا۔ الشاعروا والخطیب۔ ایسا
شعرا کلام کہنا جس کا سمجھنا دشوار ہو۔

اعوص عوصا عیاصا۔ والقیاس
اعوصا یخصمہ وعلی خصمہ۔

دلیلوں سے حیران کر دینا۔ فی الکلام
باریک بات کہنا۔

عأوصہ مأوصہ۔ کشتی لڑنا۔
پہچھاڑ دینا۔

العوص۔ باریک بات۔ مؤنث۔
عوصاء۔

العوصاء۔ مؤنث اعوص۔ سختی، ضرورت
کلمۃ عوصاء۔ نادر بات۔

العوص۔

العائض والعوص والعیصاء، درشتی
مزدورت۔ العوص۔ نفس، قوت،

حکمت۔

العویص۔ من الأمور۔ دشوار۔ من

الکلام۔ جس کا سمجھنا دشوار ہو۔

من الذوائجی۔ سخت مصائب۔

مؤنث عویصۃ۔ العویصۃ۔

سختی، نفس، قوت، حرکت۔

عاص یعوص عوصا، عوصا عیاصا

وعوص، عاوص، عاوص۔

اعاصۃ۔ فلانا من کذا۔ بدلہ

دینا۔

تعوص واعناص۔ منہ۔ بدلہ لینا۔

اعناص استعاص۔ فلانا۔ بدلہ مانگنا

عوص۔ یہ کلمہ بنی ہے تینوں حرکتوں کے

ساتھ استعمال ہوتا ہے، اسم طرف

ہے مستقبل کے استغراق کا کام دینا

ہے۔ جیسے لاأفارتک عوص میں

کبھی تجھ سے جدا نہ ہوں گا۔ استغراق

ماضی کے لیے بھی آتا ہے جیسے ما

رأیت مثله عوص۔ میں نے

اس جیسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ نفی کے

ساتھ خاص ہے، بحالت اضافت۔

معرب ہوتا ہے۔ جیسے لاأفعله

عوص العائضین۔ میں ایسا کبھی

نہیں کروں گا۔

العوص۔ ج۔ أعواص۔ العائض و

المعوصۃ۔ بدلہ۔

عاطت دن، عوطا و تعوطت۔

تعوطا۔ المرأة والناقۃ عورت

یا اونٹنی کا کئی سال تک حاملہ نہ ہونا،

بغیر بانجھ ہونے۔ العنق۔ گردن

لبی ہونا۔

العائط۔ جو بغیر بانجھ پن کے کئی سال عا

نہ ہو۔ ج۔ عوط و عواط، عیط

عیط، عیطات۔

عاف یعوف عوقا۔ الطائر۔ پرند

کا منڈلانا۔

تعوف۔ الاسد۔ شیر کا رات میں شکار

ڈھونڈنا اور اس کو پھاڑنا۔

العاف۔ نرم۔

العوف۔ مم۔ حال، حصہ، مہمان، مرغ،

شیر، بھیڑیا۔ آل اولاد کے لیے محنت

برداشت کرنے والا۔ پرندہ، ایک

نوشہ دار نباتات۔ ابو عوف۔

نرٹلی۔ ام عوف۔ مادہ ٹلی۔

العواف والعوافۃ۔ وہ شکار جس کو

رات کے وقت شیر پھاڑے، غنیمت

عاقۃ یعوقۃ عوقا، عوقۃ، عاقۃ

اعاقۃ، اعناقۃ، اعنیاقا۔

عن کذا۔ روکنا۔ باز رکھنا، ہٹا دینا۔

کتے ہیں۔ أعوقی فی الزاد أو

الدابة أعواقا۔ مجھے سفر سے نوشہ

یا سواری نے باز رکھا۔

تعوق یتعھ سنا۔ تعوق فلانا۔ باز

رکھنا۔ روک دینا۔

العوق والعوقی۔ روکنے والا۔ بے فیض

انسان، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکنے

والا۔ وادی کاموڑ۔ ج۔ أعواق۔

العوق، العوقی، العوقی، العیق،

العوقی العوقۃ۔ بزدل۔ روکنے

والا۔ رجل عوقۃ، عوقۃ،

عوقی، عیق، عیق۔ لوگوں کو

بھلے کاموں سے روکنے والا۔

العوقی۔ بھوک۔

العائق۔ فا۔ ہر روکنے والی چیز۔ ج۔

عوائق وعوق، عوائق الدھر۔

مشاغل زمانہ۔

العائقۃ مؤنث عائق۔ عمل سے رکاوٹ

ج۔ عوائق۔

العیبوقی۔ ایک ستارہ جو ثریا کے پیچھے

ہوتا ہے۔

العَوَالُ وَالْعَوَالُ جَانِدُ كَيْسُ كِي آوَار
 جو چلنے میں نکلتی ہے۔
 عَالٌ يَعُولُ عَوَالًا وَعَوَالًا عَلَيْهِ
 حملہ کیا۔ متوجہ ہوا۔ بہ۔ پناہ لی۔
 مَعَاشُهُ۔ کمائی کی۔ مَفْتٍ عَالِيكَ
 تَعَاوُلُ۔ القوم۔ باہم لڑنا۔
 رَعُوْلُ۔ القوم۔ ہجوم کرنا۔
 الْعَوَالُ۔ مہ۔ کہتے ہیں: مَا بِهِ عَوَالُ
 اس میں کوئی حرکت نہیں۔
 الْعَوَالُ وَالْمَعْوَالُ۔ لڑائی۔
 الْمَعَالُ۔ پناہ گاہ۔ راستہ۔ برداشت۔
 عَالٌ يَعُولُ عَوَالًا۔ فِي حُكْمِهِ۔ ظلم کرنا۔
 سیدھی راہ سے ہٹنا۔ يَعُولُ
 عَوَالًا عَالٌ يَعُولُ عَوَالًا۔ فِي
 الْمَيْزَانِ۔ خیانت کرنا۔ الْمَيْزَانُ
 گھٹنا۔ امْرُؤُ الْقَوْمِ۔ مضطرب ہونا
 ۔ الشَّيْءُ فَلَانًا۔ بھاری ہونا۔ عَالَتِ
 النَّفَقَةُ ذَنْبَهَا۔ ادھنی کا دم
 اٹھانا۔
 عَالٌ يَعُولُ عَوَالًا دَعِيَالَةً۔ کثیر
 اولاد ہونا۔
 عَالٌ يَعُولُ عَوَالًا دَعِيَالَةً عَوْدًا
 الرَّجُلُ عِيَالَةً۔ آل اولاد کے
 معاش کی کفایت کرنا۔ الْيَتِيمُ
 کفالت کرنا کہتے ہیں: عَالٌ عَوَالُهُ
 عِيَالٌ عَوَالُهُ اس کی ماں نے اسے
 گم کر دیا۔
 عَالٌ دَعِيَالٌ صَبْرُهُ۔ بے صبرا ہونا۔
 ۔ الرَّجُلُ۔ محتاج ہونا۔ صفت
 مَعُولٌ۔
 آعَالٌ رَعَالَةً عَوَالٌ رَعَوَالًا عَعِيَالٌ
 رَعِيَالًا۔ الرَّجُلُ۔ بہت اولاد وال
 ہونا۔ آعَالٌ الرَّجُلُ۔ محتاج ہونا۔
 آعَالٌ دَعِيَالٌ رَعِيَالٌ۔ صفت
 مَعُولٌ، مَعِيَالٌ، آعَالٌ عِيَالَةً۔

اہل و عیال کی روزی کے لیے کافی ہونا۔
 آعُولٌ۔ چلا کر رونا۔ عَلِيٌّ فَلَانٌ و بہ۔
 مدد طلب کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ کہتے ہیں۔
 ”عَوَالٌ عَلِيٌّ بِمَا شِئْتُ۔ جو چاہو مدد
 لو۔ عَوَالٌ عَلَيْهِ مَعُولًا۔ کہتے ہیں
 مگر تعویلاً نہیں کہتے اور اسم العَوَالُ
 ہے۔ اور کہتے ہیں: ”عَوَالُنَا إِلَى فَلَانٍ
 فِي خَابِئَتِنَا فَوَجَدْنَا هُ رِنَعْمَ
 الْمَعُولُ۔ ہم نے فلاں شخص سے
 اپنی ضرورت میں پناہ مانگی تو وہ بہترین
 پناہ گاہ ثابت ہوا۔
 عَعِيَالٌ نَعِيَالًا۔ رَعِيَالَةً۔ اہل و عیال کی
 معاش کے لیے کافی ہونا۔
 رَعُوْلُ رَعُوْلًا۔ چلا کر رونا۔ کہتے ہیں
 مَا لَهُ عَالٌ وَلَا مَالٌ اس کے
 پاس کچھ نہیں ہے۔
 الْعَوَالُ وَالْعَوَالُ وَالْعَوَالُ۔ چھیننے
 ہوئے گریہ وزاری کرنا۔ الْعَوَالُ۔ ہر
 ایک تکلیف دہ کام۔ آل و اولاد کی
 غوراک۔ مدد طلب کیا ہوا
 الْعَوَالُ۔ مدد طلب کرنا، بھروسہ۔ عمدہ۔
 کہتے ہیں: فَلَانٌ عَوَالِي مِنَ النَّاسِ
 فلاں شخص میرے لیے قابل اعتماد ہے۔
 الْعَالَةُ۔ شتر مرغ۔ بارش سے بچنے
 کے واسطے جھونپڑی جو ککڑی وغیرہ
 کی ہو۔
 عَعِيَالٌ۔ الرَّجُلُ۔ گھر کے وہ آدمی جن کا
 نان نفقہ واجب ہو مذکور و مؤنث
 دونوں کو شامل ہے۔ جہ۔ عِيَالٌ
 عِيَالٌ، عَالَةٌ؟
 الْمَعُولُ۔ کمال، بھاڑا۔ جہ۔
 مَعَاوِلٌ۔
 الْمَعُولُ جس سے فریاد کی جائے جس پر
 بھروسہ کیا جائے۔
 عَامٌ يَعُومُ عَوَمًا۔ فِي الْمَاءِ تَبْرًا صَفْت

عَارِيَةً۔ عَامَتِ السَّفِيْنَةُ فِي الْمَاءِ
 کشتی چلتی۔ عَامُ الرَّعَامُ۔ لگام ہٹ۔
 عَامَتِ النُّجُومُ۔ ستاروں کا چلنا۔
 عَوَمٌ۔ کئی کھیتی کو دستہ دستہ رکھنا۔ عَوَمٌ
 السَّفِيْنَةُ۔ کشتی چلانا۔ الْكُرْمُ۔
 ایک سال چھوڑ کر انگور کے درخت کا
 پھل لانا۔ عَاوَمٌ فَلَانًا۔ سال بھر
 کے لیے کرایہ پر معاملہ کرنا۔
 آعَوَمٌ رَعَوَامًا۔ ایک سال ہونا۔ اوّل سال
 میں ہونا۔
 الْعَامُ۔ عَامَتِ كِي جَع ہے دن، سال۔
 جہ۔ آعَوَامٌ تصغير عَوَالٍ۔ نسبت
 کے لیے عامیاتی آتا ہے۔
 الْعَامَةُ۔ عمامہ کا بیج، سوار کا سر جو میدان
 میں دور سے نظر آئے کھنٹی۔ الْعَامَةُ
 کئی ہوئی کھنٹی کے جمع شدہ گھٹے۔ جہ
 عام۔
 الْعَوَمَةُ۔ ایک کپڑا جو پانی میں تیرتا ہے۔
 ایک قسم کا سانپ۔ جہ۔ عَوَمٌ۔
 الْعَوَامُ۔ مبالغہ عَالٌ۔ تیز چال والا
 گھوڑا۔
 الْعَوَامَةُ۔ بنسی کی ڈوری کی وہ ککڑی وغیرہ
 جو پانی پر تیرتی ہے جس کی حرکت سے
 اندازہ ہوتا ہے کہ فمچل پھنٹ گئی ہے۔
 الْعَوَامُ۔ سوار کا سر جو دور سے میدان
 میں نظر آئے کہتے ہیں کہ: كَيْفِيَّتُهُ
 ذَاتُ الْعَوَالِيَةِ۔ یعنی میں سالوں
 میں کسی سال ملا۔
 الْمُسْتَعَامُ۔ جہاز کشتی۔
 عَانَتْ تَعُونُ عَوْنًا الْمَرْأَةُ عَوْرَت
 کا ادھیڑ عمر والی ہونا۔
 عَوْنُهُ تَعُوْنُهُ عَاوْنُهُ مَعَاوَنَةٌ
 عَوَانًا عَانَهُ رَعَانَةً عَلَى الشَّيْءِ
 مدد کرنا۔ عَوْنَتِ الْمَرْأَةُ ادھیڑ
 عمر والی ہونا۔





آعَاتِہ وندہ کسی کو رہائی دینا۔
لَعَاوَنَ وَرَعَتْوَنَ - القدم - ایک دوسرے
کی مدد کرنا۔

لَسْتَعَانَ فَلَانًا وَيَسْلَانِ - مدد مانگنا۔
الْعَوْنُ - مہم - مددگار - مدد کرنا - خادم۔
رد واحد جمع، مذکر، مؤنث، جہر۔

الْعَاوَنَةُ - کدھی گور خر کا ریوڑ - پیرو - جہر۔
عَوْنٌ، عَانَاتٌ۔

الْعَوَانُ - بارش شدہ زمین، وہ جنگ ہو
یا رہا رہو۔ الْحَوِيَّ الْعَوَانُ - سخت
لڑائی - الْعَوَانُ - ادھر عمر - جہر۔
عَوْنٌ۔

الْعَوَانَةُ - گھور کا لہا دانت، ایک کیڑا جو
بہت سے ہوتا ہے۔ ایک جانور جو
بہت سے مشابہ ہوتا ہے۔

الْمَعَانَةُ، الْمَعُونَةُ، الْمَعُونُ - مدد۔
الْمَعُونُ - بہتر مددگار - بہت مددگار۔
جہر۔ مَعَاوِينَ

الْمُعَاوِنَةُ - بڑھی عورت۔
عَاةٌ يَعُوهُ عُوْدُهَا وَعِيَّةُ - الزَّرْعُ
کھیتی کا آفت زدہ ہونا۔ الرَّجُلُ
آفت رسیدہ کھیت یا جانوروں کا
مالک ہونا، صفت عَاِيَّةٌ، عَاِيَةٌ
عَاةٌ، اَعُوَّةٌ۔

عَوَّجَ - الرَّجُلُ - آفت پہنچانا۔ د -
اَعَاةٌ، اَعُوَّةٌ اَعَاهَةٌ، اَعَوَاهَا
لَعُوَّةٌ تَعُوْهَا، آفت رسیدہ کھیت
یا جانوروں کا مالک ہونا۔ عَوَّجَ
الْقَوْمُ - کچھ دیر سونے کے لیے سفر
میں ٹھہرنا۔ عَوَّجَ عَلَيْهِمْ - ٹھہرنا،
اقامت کرنا۔

الْعَاهَةُ - آفت - اَهْلُ الْعَاهَاتِ
آفت رسیدہ لوگ۔
الْمَعِيُوْدُ وَالْمَعُوَّةُ وَالْمَعِيَّةُ - من

الْمَعَاوِشِي وَغَيْرُهَا - آفت رسیدہ
عَوِي يَعُوِي عَوَاءً، عَيَاءً، عَوَّاةً -
عَوِيَّةً - الْكَلْبُ اَوَالِدُ ثَبُ و
رَابِعُ اَوَلَى - بھونکنا کہتے ہیں۔ فَلَانٌ
مَا يَعُوِي وَمَا يَنْجُو - کمزور ہے۔
- الْقَوْمُ اِلَى الْفِتْنَةِ - بلانا۔ د -
عَوَاةٌ يَعُوِيْہِ عَيَاءً، عَنِ الشَّيْءِ -
باز رکھنا۔ عَوِي الْقَوْمُ وَنَحْوُهُ -
کمان کو جھکانا۔ الْجَلُّ اَوَالِدُ الشَّعْرِ
رسی یا بال کو موڑنا۔ عَنِ الرَّجُلِ
جواب دینا اور غیبت کرنے والے
کو جھٹلانا۔

لَا عَتَوِي اَعْتَوَاءً - الشَّيْءُ - موڑنا۔
الْكَلْبُ کہتے کا بھونکنا۔ عَاوِي
الْكَلْبُ مُعَاوَاةً - بھونک کر کہتے کو
بھونکنے پر اکسانا۔

لَعَاوِي لَعَاوِيًا - الْقَوْمُ عَلَى فُلَانٍ
کسی پر هجوم کرنا۔
لَا عَوِي اَعْوَاءً۔

اِسْتَعَوِي اِسْتَعْوَاءً - الْقَوْمُ - فریاد کرنا
فتنہ پرا بھارنا۔ ا - بھونکنا۔

الْعَوَاءُ - کتا جو خوب بھونکتا ہو۔
الْعَوَّةُ - مہم - آواز، شور۔ الْعَوَّةُ
چوڑ۔

الْمُعَاوِيَةُ - کتیا - لومڑی کا بچہ۔

عَابَ يَعِيْبُ عَيْبًا - الشَّيْءُ - عیب دار
بنانا۔ صفت فاعلی، عَابِيٌّ - صفت
مفعولی، مَعِيْبٌ، مَعِيْبُوْبٌ - فَلَانًا
عیب کی طرف متوجہ کرنا۔ عَابَ
الشَّيْءُ - عیب دار ہونا۔ صفت
عَابِيٌّ۔

عَيْبٌ، لَعِيْبٌ - الرَّجُلُ - عیب کی
طرف متوجہ کرنا۔ عیب دار بنانا۔
لَعَابِيٌّ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کا عیب
بیان کرنا۔

الْعَيْبُ - مہم - برائی۔ جہر۔ عَيْبُوْبٌ -
الْعَيْبَةُ - ایک بار عیب ہوئی کرنا، چھڑے
کی زنبیل، کپڑوں کے محفوظ رکھنے کا
صندوق۔ جہر۔ عَيْبٌ، عَيْبِيٌّ،
عَيْبَاتٌ - الْعَيْبَةُ مِنَ الرَّجُلِ
بھیدل جگہ۔

العَابُ - عیب، برائی۔
الْعِيَابُ، الْعِيَابَةُ، الْعِيْبَةُ - بڑا
عیب ہو۔

المَعَابُ الْمَعَابَةُ - عیب، برائی، جہر۔
مَعَابِيٌّ۔

المُعِيْبُ وَالْمُعِيْبُوْبُ - عیب دار۔

المُعِيْبُ - زنبیل ساز۔
عَاثٌ يَعِيْثُ عَيْثًا، عِيُوْثًا، عَيْبَانًا -
الشَّيْءُ - فاسد کرنا۔ فِي مَا لَمْ -
فصلوں خرچی کرنا اور خرچ کرنے میں
جلدی کرنا۔ صفت مذکر عَيْثَانٌ -
صفت مؤنث عَيْثِيٌّ۔

عَيْثٌ - اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹولنا۔
کہتے ہیں۔ عَيْثٌ يَفْعَلُ كَذَا - وہ
ایسا کرنے لگا۔

تَعَيَّبَتِ الْاِبِلُ سِيرَانِي سَمَ بَيْنَا -
الْعِيُوْثُ وَالْعِيَاثُ - بہت فساد مچانے
والا۔ د - وَالْعَاِيْثُ - شیر۔

الْعَيْثَةُ - ایک بار کی فساد انگیزی، نرم
سرزمین۔

عَاَجَرَ يَعِيْبُجُ عَيْبًا - بالشَّيْءِ - پرواہ کرنا۔
کہتے ہیں۔ لَا اَعِيْبُجُ لِكَلَامِهِ - میں
اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ مَا
عَجَبْتُ بِالشَّيْءِ - میں اس پر راضی
نہیں۔ شَرِبْتُ الدَّوَامَا عَجَبْتُ
بہم میں نے دوپہ کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔

دیر ہمیشہ منفی استعمال ہوتا ہے
عَاَرِ يَعِيْرُ عَيْرًا - حیرانی کے ساتھ آنا جانا۔
الْقَوْمُ - گھوڑے کا ناک کی سیدھی

بھاگنا کہ کوئی چیز اسے نہ پھیر سکے۔
اسم العیار فلاناً۔ عیب لگانا۔
عارت القویڈۃ۔ قصیدہ کا
مشہور ہونا۔

عَیَّرَ۔ فلاناً۔ عار کی طرف نسبت کرنا کسی
کام کی برائی بیان کرنا۔ کہتے ہیں۔
عَیَّرَ کذا عَیَّرَہُ بكذا۔ عار
دلانا۔ عَیَّرَ النماۃ۔ کہیں نہ ہوں۔
عَیَّرَ مُعَاوِیَہَ عَیَّارًا۔ البکیال او
المیزان۔ اندازہ کرنا۔ جانچنا۔ عَیَّرَ
فلاناً۔ ایک دوسرے پر فخر کرنا۔

آعار عارۃ۔ الفرس۔ چرنے کے لیے
چھوڑ دینا۔ موٹا کرنا۔

تَعَايَر۔ القوم۔ ایک دوسرے کا عیب
بیان کرنا۔ ایک دوسرے کو شرم دلانا۔

العار۔ عیب، ہر وہ قول و فعل جس سے
آدمی کو شرم آئے۔ جر۔ اَعْيَارٌ۔

العیر۔ مص۔ گدھا۔ گورنر۔ گورنر کے
معتوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔

جر۔ اَعْيَارٌ، عِیَارٌ، عِیُوسٌ،
عِیُورۃٌ عِیَارَاتٌ مُنَکَّرٌ عِیْرۃٌ
العیر۔ ہری بھری چیز آنکھ کی پٹی۔

پلک۔ کھونٹی۔ کڑی جو ہودج کے
آگے لگی ہوتی ہے۔ پہاڑ۔ سردار۔

بادشاہ، ڈھول۔ عَیَّرَ الْقَدَم۔ قدم
کے بیچ کا ابھرا ہوا حصہ۔ عَیَّارٌ

الورقۃ۔ پتے کا درمیان خط۔
العیر۔ قبیلہ حیر کا قافلہ بھر تمام قافلوں

پراس کا اطلاق ہونے لگا۔ جر۔
عِیْرَاتٌ۔

العائر۔ فا۔ حیران، مزدور، چکر لگانے
والا۔ سَهْمٌ عَائِرٌ جس تیر کا پھینکنے

والا نہ معلوم ہو۔ شَاکَا عَائِرۃٌ۔
بکری جو دو گلوں کے درمیان پریشان

چرے کہ کدھر جائے۔

العیار۔ جر۔ عَیَّرَ۔ عِیَارُ الشیء۔ ہر چیز
کا اندازہ۔ جر۔ عِیَارَاتٌ۔ عِیَارٌ
الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَانِیْر۔ درہم و
دنانیر کا ٹھپہ۔

العِیَارُ۔ بہت پھرنے والا۔ آوارہ گرد
فِرْسٌ عِیَارٌ۔ تیز رفتار گھوڑا۔

العِیَارُ۔ کسوٹی۔ جر۔ مَعَايِرٌ۔
العیار۔ دین القبول گھوڑا جو جمع ہونے
کے راستے سے ایک طرف ہو جائے۔

المَعَايِرُ۔ عیوب۔
المُسْتَحْیِرُ۔ جو کدھے کے مشابہ ہو۔

موٹا گھوڑا۔
اَعْيَسَ اَعْيَاسًا۔ الزرع کھیتی کامر جھانا

خشک ہونا۔
تَعَيَّتَ الْاِبِلُ۔ بھورے رنگ والا ہونا۔

العَبَسَ وَالْعِیْسۃُ۔ بھورا رنگ۔
العِیْسُ۔ بھورے رنگ کا اونٹ۔ واحد

نکر اَعْيَسٌ واحد مؤنث اَعْيَاسٌ۔
العِیْسُ۔ عمدہ قسم کے اونٹ۔

العِیْسَاءُ۔ بڑی مادہ۔
عِیْسٌ۔ عیران کل سے عیس السدم کہ

نام ہے۔ نسبت کے لیے عِیْسُوۃٌ
اور عِیْسُوۃٌ آتا ہے۔

عَاشَ یَعِیْشُ عِیْشًا، عِیْشۃٌ،
مَعَاشًا، مَعِیْشًا، مَعِیْشۃٌ،

عِیْشُوۃٌ۔ زندہ رہنا۔
عِیْشۃٌ، اَعَاشَہُ اِعَاشۃٌ۔ زندہ رکھنا۔

عَاشَہُ، اَعَاشَہُ اِعَاشۃٌ۔ زندہ رکھنا۔
عَاشَہُ، اَعَاشَہُ اِعَاشۃٌ۔ زندہ رکھنا۔

تَعِیْشٌ۔ اسباب زندگی کے لیے کوشش
کرنا۔

تَعَايَشُوا۔ بِالْاُلْفۃِ وَالْمَوَدۃِ۔ محبت
پیارے ایک ساتھ زندگی گزارنا۔

العَاشُ۔ فا۔ کہتے ہیں۔ هُوَ رَجُلٌ
عَاشٌ اس کی اچھی حالت ہے۔

العِیْشُ۔ مص۔ زندگی۔ کھانا، روٹی۔ و

العِیْشۃُ زندگی کی حالت۔
العِیَاشُ۔ روٹی فروخت کرنے والا۔ کھانا

فروخت کرنے والا۔ عَاشٌ کا مبالغہ۔
المَعَاشُ وَالْمَعِیْشۃُ۔ کھانے پینے کی

جس چیز سے گذران ہو سکے، ذریعہ
زندگی۔ المعاش۔ زندگی کے گذران

کو ڈھونڈنا، وقت، زمانہ۔ جر۔ مَعَايِشُ۔
المَتَعِیْشُ۔ فا۔ جس کے پاس گذر بسر کے

لیے کچھ ہو۔
العِیْصُ۔ گنجان جھاڑی، اچھے درختوں کے

اگنے کا مقام۔ اصل۔ کہتے ہیں۔ هُوَ
مِنْ عِیْصٍ کَرِیْمٍ۔ وہ شریف اصل

ہے۔ جر۔ اَعْيَاصٌ، عِیْصَاتٌ۔
المَعِیْصُ۔ درختوں کے اگنے کا مقام۔

عَاطَتٌ تَعِیْطُ عِیْطًا۔ العُنُقُ۔ گردن
کالبی ہونا۔ صفت مذکر۔ اَعِیْطُ۔

مؤنث عِیْطَاءُ۔ جر۔ عِیْطُ۔
عِیْطُ تَعِیْطًا۔ چھینا۔ چلانا۔

تَعِیْطُ۔ غصیب تک ہونا۔ القوم۔ چھیننا،
شور مچانا۔ تَعِیْطَتِ الْعُنُقُ۔ گردن

لمبی ہونا۔ تَعِیْطُ الْعُوۃِ۔ کڑی سے
پانی جیسا بہہ کر گوند بننا۔

العِیَاطُ۔ بچہ، پکار۔
العَاطِطُ۔ فا۔ چھیننے والا۔ جر۔ عَوَّطٌ،

عِیْطٌ، عِیْطٌ، عَوَّطٌ، عِیْطَاتٌ
مبالغہ کے لیے کہتے ہیں عَاطِطٌ، عِیْطُ

عَوَّطٌ، عَوَّطٌ۔
هَضْبۃٌ عِیْطَاءُ۔ اونچا ٹیلہ۔

عَافٌ یَعِیْفُ عِیَافًا، عِیَافًا، عِیَافًا،
عِیَافًا۔ الطَّعَامُ وغیرہ۔ کراہت

کی بنا پر چھوڑ دینا۔
عَافٌ یَعِیْفُ عِیَافۃً۔ الطَّیْرُ۔ پرند

اڑا کر فال لینا۔
عَافَتْ تَعِیْفُ عِیَافًا۔ الطَّیْرُ۔ منڈلانا۔

اسم عیفتہ ہے۔

ع



اَعَانَ اِعَانَةً - القوم - پانی ناپسند کرنے والے جانوروں کا مالک ہونا۔
اَعَانَ اِعْيَانًا - سفر کے لیے توشہ لینا۔
- الطعام وغیرہ - ناپسندیدگی کی بنا پر چھوڑ دینا۔

العَائِفُ - فَا - شگون لینے والا۔
العَيْفَةُ - ایک بار مکروہ جاننا۔ عَيْفَةٌ
التَّائِبُ - منڈلانا۔ پزند کا چکر۔
اَلْعَيْفَةُ - کراہت کی نوعیت، عمدہ مال۔
العَيْفَانُ - العَيْفُ شگون لینے والا۔
نُسُوز عَوَائِفُ - مقتولوں پر منڈلانے والے گھر۔

العَيْفَانُ - نفرت کرنے کا عادی۔
العَيْفَانُ - مکروہ۔
اَلْعَيْفَانُ - شگون لینے والا۔ فال نکالنے والا۔

عَاقٍ يَحِقُّ عَيْفًا بِحَنِ عَاقٍ يَحِقُّ عَوْفًا -
عَاكَ يَعْيكُ عَيْكًا - مزید بھڑکلاتے ہوئے چلنا۔

عَالَهُ يَعْيلُهُ عَيْلًا، عَيْوَلًا -
فی الارض - چلنا پھرنا۔
عَالَ يَعْيلُ عَيْلًا، عَيْلًا، عَيْوَلًا،
مَعِيلًا - محتاج ہونا۔ صفت عَائِلٌ
مَوْتٌ عَائِلَةٌ - اسم عَيْلَةٌ - عَالَ
الرَّجُلُ - بہت اولاد والا ہونا۔

عَيْلٌ - کثیر اولاد ہونا۔ عَيْلَالٌ - معاش کی طرف سے کافی ہونا۔ القوم - عیال بنالینا۔ بیکار چھوڑ دینا۔ فَرَسَهُ - حمل کر دینا۔ بیکار چھوڑ دینا۔

اَعْيَلُ اَعْيَالًا - کثیر العیال ہونا۔ صفت
نَذَرَ مَعِيْلٌ - صفت مَوْتٌ مُعْيِلَةٌ
تَعْيَلٌ - فی المَشْيِ - ناز و انداز سے چلنا۔
العَائِلُ - فَا - محتاج - جہ - عَاكَةٌ
عَيْلٌ، عَيْلٌ، عَيْلٌ -

العَيْلَانُ - زہجو۔
عَيْلٌ - الرَّجُلُ - گھر کے افساد - جہ
عَيْلًا -
عَيْلَةُ الرَّجُلِ وَعَائِلَتُهُ - گھر کے لوگ جن کا نان نفقہ واجب ہو۔ کہتے ہیں
اَمْسَيْتُ اَحَا عَيْلَتِي - میں فقیر ہو گیا۔

العَاكَةُ - فاقہ۔
العَيْالُ - ناز سے چلنے والا۔
العَيْالَةُ وَالْمَعَالَةُ - لِلْمَرْدُوْنَ
وغیرہ - چارہ۔

رَجُلٌ مُعَيِّلٌ - صاحب عیال، اہل و عیال والا۔
عَامٌ يَعْيمُ عَيْمًا، عَيْمَةً - دودھ کا خواہش مند ہونا۔

اَعَامَهُ اِعَامَةً - اللہ - بغیر دودھ کے چھوڑنا۔ اَعَامَ الرَّجُلُ - بغیر دودھ کے رہنا۔ القوم - دودھ کم ہونا۔
اِعْتَامٌ اِعْتِيَامًا - عمدہ مال چھانٹ لینا۔
العَيْمَةُ - دودھ کی بہت خواہش۔

العَيْمَةُ - عمدہ مال۔
العَامُ - دن - کہتے ہیں - سَرْنَا الْعِيَامَ كُلَّهُ
سارے دن چلتا رہا۔

العِيْمَانُ - دودھ کا خواہش مند۔ مَوْتٌ
عَيْجِي - جہ - عَيْجِي -

عَانَ يَعْينُ عَيْتًا - الرَّجُلُ - نظر لگانا۔ صفت
عَائِنٌ - صفت مَعْنَى مَعِينٌ، مَعِيْنٌ -
(عَيْنًا، عَيْنًا، عَيْنًا، المَاءُ أَوْ
الدَّمَارُ - پانی یا آسوکا جاری ہونا۔

عَانَتِ الْبِشْرُ كَمَنْبُورٍ كَابِتٍ - پانی والا ہونا۔
کہتے ہیں - حَقَرْتُ حَتَّى عَنَتُ - میں
نے کھودا حتیٰ کہ پانی کے چشمے تک پہنچ گیا۔
اَعْيَانَتُهُ - القوم - خبر لانا۔
عَلَى الْقَوْمِ - جاسوس بنانا۔

عَيْنٌ يَعْينُ عَيْنًا، عَيْنَةً - آنکھ کی

خوب چوڑی پتلی والا ہونا۔
عَيْنٌ يَعْينُ - الشَّجَرُ - سرسبز ہونا۔ شُكُوف
دار ہونا۔ اَلتَّاجِرُ - سامان کو ایک مدت کے وعدے پر فروخت کرنا، اور
پھر پہلی قیمت سے کم میں دوبارہ خرید لینا۔ العَيْنُ - حرف عین لکھنا۔
اَللُّوْءُ - پرونا۔ اَلْقَرْبَةُ - مشک میں پانی ڈالنا تاکہ سلائی کے سوراخ
بند ہو جائیں۔ اَلْحَرْبُ - بَيْنَنَا - لڑائی
کرنا۔ الشَّيْءُ - خاص کرنا۔ علیحدہ کرنا۔
فُلَانًا - برائیوں کو مندر منہ کرنا۔ علی
فُلَانٍ - جاسوسی کرنا۔ علی السَّارِقِ -
تمت والوں میں سے چور کو متعین کرنا۔
- الشَّيْءُ - فُلَانٍ - کسی کے لیے مخصوص کرنا، کہتے ہیں - مَا عَيْنَ لِي شَيْءًا
مَا عَيْنَ لِي شَيْءًا - مجھے کچھ نہیں دیا۔
اَعَانَ اِعَانَةً - عون کا مادہ دیکھو۔ کہتے
ہیں - حَقَرْتُ حَتَّى اَعْبَنْتُ - میں
نے کھودا حتیٰ کہ پانی کے چشمے تک پہنچ گیا۔
مَا اَعَيْنَهُ - وہ کس قدر بد نظر ہے۔

عَابَنَهُ عِبَانًا مَعَايِنَةً - خود دیکھنا۔
معائنہ کرنا۔

تَعَيَّنَ - نَظَرَ لَكَ - تَعَيَّنَ الرَّجُلُ -
یقینی طور پر دیکھنا۔ تَعَيَّنَ الشَّيْءُ -

دیکھنا۔ اَلْجَدُّ - کھال کا اُبلد دار ہونا۔
الرَّجُلُ - کسی چیز کے حصول کے لیے توقف کرنا۔ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ -
مقرر شدہ کا لازم ہونا۔ اَلْمِسْقَاءُ -

کسکی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے دائروں کا پڑنا۔

اِعْتَنَانُ - الشَّيْءُ - عمدہ لے لینا۔ اُدھار
خریدنا۔ القوم - خبر لانا۔ اَلْفُلَانِ
مَنُورًا - تلاش کرنا۔

العَائِنُ - فَا - کہتے ہیں - مَا يَالِدَارِ عَائِنٌ -

کوئی نہیں ہے۔ شَرِبَ مِنْ عَائِنَ۔
بستے پانی سے پیا۔

الْعَائِنَةُ - مَوْتٌ عَائِنٌ کہتے ہیں "لَقِيْتُهُ"
أَوَّلَ عَائِنَةٍ أَوَّلَ فَيَ عَائِنَةٍ" ہر
شے سے پہلے ملا۔ عَائِنَةُ بَنِي فُلَانٍ
مال اور محافظین مال۔

الْعَيْنُ - مَصَّ آئِکھ، آئِکھ کا ڈھیلا۔ پلک
دغیر سمیت سب پر اطلاق ہوتا ہے۔
مَوْتٌ ہے۔ جَرَّ أَعْيُنَ، عِيُونُ،
عِيُونُ، أَعْيَانُ - جَجَرَّ أَعْيَانُ
تصغیر عَيْنَانَةٍ۔

الْعَيْنُ - اہل شہر اہل خانہ، بد نظری، کہتے
ہیں بہ عَيْنٍ - وہ بد نظریہ، انسان
اسی سے ہے مَا بِاللَّذِي عَيْنٌ - کوئی
نہیں ہے۔ خاص، واضح، کہتے ہیں۔
ذَكَرَ الْحَقَّ بَعَيْنِهِ - خاص طریقہ پر
حق کو بیان کیا۔ تَقْبِيسَ - عزت، جھنڈا
عَيْنُ الْإِبْرَةِ - سوئی کا ناکہ۔ دیدبان
جاسوس، جماعت، ہر موجود چیز کہتے
ہیں۔ لَبَعْنَةُ عَيْنٍ لَعَيْنٍ - موجود کو
موجود کے ساتھ بیجا عمدہ شے، کھال
کے چھوٹے چھوٹے حلقے، دینار، نقد
موجودات - ذَات - شے کہتے ہیں۔ هُوَ
عَيْنًا أَوْ لَعَيْنًا - سود، سرور، شریف
قوم، کمانڈر، ہراول دستہ، آفتاب
شعاع آفتاب، مال تیار مال، مالی
کے پانی کے گرنے کا مقام، کنویں کے
پانی پھوٹنے کی جگہ، پانی کا چشمہ۔ ج
أَعْيُنٌ، عِيُونٌ - ترازو کا جھکاؤ، گوشہ
نظر، دیکھنے کی جگہ - کہتے ہیں - فُلَانٌ
عَيْنٌ عَلَى عَيْنٍ فُلَانٍ - فلان کا نگہبان
ہے۔ هُوَ عَبْدٌ عَيْنٍ أَوْ صِدِّيقٌ
عَيْنٍ - وہ دکھاوے کا خادم یا دوست
ہے۔ لَقِيْتُهُ عَيْنٌ عَيْنًا - میں اس
سے ملا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا لَقِيْتُهُ

أَوَّلَ عَيْنٍ - میں نے سب سے پہلے
ملاقات کی۔ لَا تَطْلُبْ أَكْثَرَ بَعْدَ
عَيْنٍ - معائنہ کے بعد اثر کو طلب مت
کرو۔ یہ ایسے موقع کے لیے ضرب المثل
ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے اور
چھوڑ دے اور گم ہو جانے پر اس کے
اثر کے لیے ہو جائے۔ صَارَ خَبْرًا
بَعْدَ عَيْنٍ وَأَنْتَ عَلَى عَيْنِي - تم
میری حفاظت میں ہو، میری نگاہ میں
تمھاری عزت ہے۔ هَاهُوَ عَرَضٌ
عَيْنٍ - وہ قریب ہے۔ فَعَلَهُ عَلَى
عَيْنٍ وَعَلَى عَيْنَيْنِ وَعَمْدًا عَلَى
وَعَمْدًا عَيْنَيْنِ - یقین کے ساتھ کوشش کی۔
فَقَا عَيْنِي - لٹا پنچر مارنا اور برا بھلا
کہنا۔ نَعَمْ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا - اللہ آنکھ
بھنڈی رکھے

الْعَيْنُ - نل گائے۔
لَعَيْنٌ - مَصَّ - اہل شہر، جماعت
الْعِيَانُ - مَصَّ - شخص، کہتے ہیں لَقِيْتُهُ أَوْرَاءَ
أَعْيَانًا - اس نے ملاقات کی یا دیکھا،
اور اس کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں
الْعِيَانُ - بل کا پھل - جَرَّ - عَيْنٌ،
أَعْيَانَةٌ۔
الْعَيْنَةُ - عمدہ مال، عَيْنَةُ الْخَيْلِ - عمدہ
گھوڑا ہے۔ الْعَيْنَةُ مِنَ التَّعْجِزَةِ -
بکری کی آنکھ کا حلقہ - عَيْنَةُ الْحَرْبِ -
مادہ جنگ - ثَوْبٌ عَيْنَةٌ - عمدہ کپڑا۔
بَيْعُ الْعَيْنَةِ - کسی چیز کو اصلی قیمت سے
زیادہ ادھار بیچنا۔

الْعِيَانِي - مِنَ الشُّكُوهِ - عینی گواہ۔
الْعَيْنَةُ - عین کی طرف منسوب۔
الْعِيُونُ - بد نظریہ، جَرَّ - عَيْنٌ وَعَيْنٌ -
الْأَعْيُنُ - جس کی پتلی بڑی اور چوڑی ہو۔
مَوْتٌ عَيْنًا - جَرَّ - عَيْنٌ - الْأَعْيُنُ

جنگلی بل۔ الْعَيْنَاءُ - خوبصورت آنکھوں
والی عورت - ہترین کلمہ کہتے ہیں أَرْضُ
عَيْنَاءُ - سرسبز زمین۔
الْمُعَايَنَةُ - مَصَّ - برادری۔
الْمَعَانُ - منزل، کہتے ہیں "هَضْرُوتُكَ
بِمَعَانٍ - وہ لوگ ایسے پر مقام پر ہیں کہ
تم انھیں دیکھ سکتے ہو۔
الْعَيَانُ وَالْمُعَيَّنُ - بہت نظر لگانے والا۔
الْمَاءُ الْمَعِينُ وَالْمَعِيُونُ - جاری پانی۔
عَيْنٌ مَعِيُونَةٌ - وہ چشمہ جس میں پانی
بہت ہو۔

الْمُعَيَّنُ - اسم فاعل از تعيين، علم ہند سہ کی
اصطلاح میں ایسی شکل مسطح کا نام جس
کے چاروں ضلع مستقیم و منساوی ہوں۔
لیکن زاویے قائم نہ ہوں۔
الْمُعَيَّنُ - اسم مفعول از تعيين - سائڈ۔
نر گاؤ۔ آنکھیں بڑی ہونے کی وجہ سے
یہ نام پڑا۔

ثَوْبٌ مُعَيَّنٌ - وہ کپڑا جس کے نقش و نگار
میں وحشی جانوروں کی آنکھوں کے مثل
خانے ہوں۔ نیز بولتے ہیں - رَيْبَةٌ
مُعَيَّنَةٌ دُمُعَيْنَةٌ - یعنی واضح اور
کھلا ہوا ارادہ۔

الْمُعْنَانُ - پیشوائے قوم، سبزہ اور پانی کی
تلاش کرنے والا۔

عَاكَ (ض) عَيْهَا - آفت نازل ہونا۔
الْعَائِقَةُ - جَنَحٌ - پکار۔

الْعَاهَةُ - آفت۔
أَرْضٌ مَعِيُونَةٌ - آفت زدہ سرزمین۔
عَيٌّ يَعِيٌّ وَيَعِيٌّ يَعْصِي رَسًا، عَيًّا وَعَيًّا

- بِأَمْرِهِ أَوْ عَنْ أَمْرِهِ - کام سے عاجز
ہو جانا، درست نہ کر سکا۔ صورت
مراود کا جلوہ گر نہ ہونا۔ عَيٌّ الْأَمْرُ - کام
سے ناموافق ہونا۔ عَيٌّ رَسًا - عَيًّا
فِي الْمَنْطِقِ - کلام کرتے کرتے ایک



غَبْرُکَستے ہیں اور اس کے معنی گرد آلود کے بھی ہیں۔

غَبْرٌ لَغَبِيْرًا۔ غبار اٹھانا۔ غَبْرُ الشَّيْءِ کسی چیز کو غبار آلود کر دینا۔ غَبْرُ الرَّجُلِ تلبیل پڑھنا۔ پڑھتے ہوئے یا گاتے ہوئے آواز نہ دراز نکالنا۔ گٹکری بھرنہ۔ محاورہ میں بولتے ہیں۔ غَبْرٌ فِي دَجَبٍ فُلَانٍ۔ دوڑیں فلاں سے آگے نکل جانا گویا اس کے چہرے کو غبار آلود بنا دینا۔ اَغْبَرُ غبار اٹھانا۔ گرد آلود ہو جانا۔ اَغْبَرُ فِي الْأَمْرِ کام پر توجہ کرنا۔ اور کوشش کرنا۔

اَغْبَرَتِ السَّمَاءُ۔ آسمان سے شدید بارش برسنا۔ اَغْبَرُ غبار آلود ہونا۔ اَغْبَرُ الْيَوْمِ۔ دن بھر شدید غبار رہنا۔

الْغَبْرُ۔ کینہ، دل کدورت۔ الْغَبْرُ۔ ج۔ اَغْبَارُ وَالْغَبْرُ۔ ج۔ غُبْرَاتُ باقی ماندہ شے، بچی کچی شے باقی ماندہ اثرات بیماری کو غَبْرُ الْمَرِيضِ کہتے ہیں۔

الْغُبْرَةُ۔ غباری رنگ الْغَبْرَةُ وَالْغُبَارُ خاک یا خاک کے باریک ذرات۔

الْغَبْرُ بَقَاوَاتٍ۔ ذَا هَيْئَةٍ الْغَبْرُ۔ نہ ٹٹنے والی سخت مصیبت۔ الْغَبْرُ غَاكُ

الْغَبْرَةُ۔ غبار آلود ہونا۔ مصدر بروزن فَعَلَهُ۔

الْغَبْرُ۔ م۔ ناسور۔ جُرْحٌ غَبْرٌ۔ وہ زخم جو برابر پھوٹتا رہے۔

الْاَغْبَرُ۔ وہ چیز جس کا رنگ خاک ہو۔ بھیڑ یا فانی ہوتے ہیں۔ لَا يَغْبِرُ لَكَ عَمْرٌ

الدُّنْيَا فَإِنَّهُ اَغْبَرٌ۔ یعنی دنیا کی عزت سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا کیونکہ وہ فانی ہے۔ ج۔ غَبْرٌ۔ جُوعٌ

لَغَبِيْرًا۔ سخت بھوک کی صفت بھی

اغبر لاتے ہیں۔ محاورہ میں کہتے ہیں الْجُوعُ الْاَغْبَرُ وَالْمَوْتُ الْاَحْمَرُ۔

یعنی سخت بھوک اور قاتل موت۔ الْغَبْرَاءُ۔ مَوْتٌ اَغْبَرُ۔ مادہ تَحْلٍ۔ سرخ

چوڑے کا پیر کے ہم شکل کمزور کے برابر پرندہ جو اونچے حملات میں آسٹھیاں

بناتا ہے۔ زمین، چنانچہ بے مثل شخصیت کے لیے بولتے ہیں۔ مَا اَظْلَمَتِ

الْبَخْصَرَاءُ وَلَا اَقْلَمَتِ الْغَبْرَاءُ مِثْلُ فُلَانٍ۔ یعنی آسمان کے نیچے اور

زمین کے اوپر فلاں کی مثال نہیں۔ بَنُوا الْغَبْرَاءُ وَبَنُوا غَبْرَاءَ۔ فقرہ مفلسین

مَسْنَةُ غَبْرَاءَ۔ قحط کا سال جس میں بارش نہ برے۔

الْغُبَيْرَاءُ۔ باجرہ جو ارکی شراب۔ ایک قسم کا پودا۔

الْغَايِرُ۔ اسم فاعل۔ گزشتہ، باقی ماندہ اخلاص میں سے ہے۔ بولتے ہیں۔ هُوَ غَايِرٌ

بَيْنِي وَفُلَانٍ۔ یعنی وہ فلاں خاندان کا باقی شخص ہے۔ ج۔ غَبْرٌ وَغَايِرُونَ۔

غَبْرُ الشَّيْءِ کسی چیز کے نقایا حصے۔ غَبْرُ الْكَبَلِ۔ رات کے چمکے گئے۔

غَبْرُ النَّاسِ۔ مرتبہ میں گئے ہوئے لوگ۔

الْيَغْبَارُ۔ مِنَ التَّحْلِ وَغَيْرِهَا۔ وہ کھجور یا کوئی چیز جس پر غبار جا ہو۔

الْمُعْتَبَرَةُ۔ وہ لوگ جو خدا کا نام بات بات پر پکارتے ہیں۔

غَبَسَ (دَن) غَبَسًا وَاعْبَسَ وَاعْبَسَ وَالْغَبَسُ۔ رات کا تاریکی

ہو جانا۔ اَغْبَسَ۔ تاریکی رات۔ ج۔ غَبَسَ۔ اَغْبَسَ الشَّيْءُ کسی چیز کا

خاکستری رنگ ہو جانا۔ الْغُبْسَةُ وَالْغُبْسُ۔ خاکستری رنگ۔

یعنی کدورت مائل سفیدی۔ اَوَّلُ شَبَابٍ

کی تاریکی۔

غَبَسَ رَسَ، غَبَسًا وَاعْبَسَ۔ اللَّيْلُ۔ آخر شب میں روشنی کا تاریکی سے مخلوط

ہو کر پایا جانا۔ تَغْبِثَةُ۔ کسی کو دھوکا دینا۔ ظلم کرنا۔ جھوٹا

دعویٰ دائر کر دینا۔ الْغَارِبُ۔ ملاوٹ کرنے والا۔ دھوکے باز۔ ظالم۔

الْغَبَسُ۔ رات کا باقی حصہ۔ آخر شب کی تاریکی۔ ج۔ اَغْبَاشٌ۔

الْغُبْسَةُ۔ رات کا باقی حصہ۔ لَيْلٌ غَبَسٌ وَاعْبَسٌ وَكِبَلَةٌ غَبَسَاءُ۔ اندھیری

رات۔ ج۔ غَبَسٌ۔ غَبِصْتُ دَسَ، غَبَصًا۔ الْعَيْنُ۔ بہت

رونے کے سبب آنکھ سے ڈھیڈھیل یعنی کثافت زیادہ نکلنا۔

الْغَبَصُ۔ م۔ بننے والی ڈھیڈھیل آنکھ سے بننے والا کثیف پانی، چنانچہ اسی معنی میں

بولتے ہیں۔ فِي عَيْنِهِ غَبَصٌ۔ غَبَطَ (ض) غَبَطًا۔ اَلْكَبَشُ۔ ہاتھ سے

مینڈھنے یا بکری کی کرٹھوڑا جس سے اس کا موٹا یاد بٹا ہونا معلوم ہو۔

غَبَطَهُ (ض) وَغَبَطَهُ غَبَطًا وَغَبَطَةً کسی چیز کا نظروں میں چڑھ جانا۔

دوسرے کی نعمت وغیرہ کے مثل اپنے لیے بھی چاہنا۔ مگر اس سے زوال کی

خواہش نہ ہو۔ یعنی کسی کے حال پر رشک کرنا۔

الْغَارِبُ۔ رشک کرنے والا۔ ج۔ غَبِطَ۔ اسم فاعل۔

مَغْبُوطٌ۔ جس پر رشک کیا جائے۔ اسم مفعول۔

غَبَطَهُ۔ کسی کو رشک کرنے پر آمادہ کرنا۔ کسی کے فعل کو قابل رشک قرار دینا۔

اَغْبَطَ۔ السَّحَابُ۔ بارش مسلسل برسنا۔

غ



محاورہ میں اسی معنی میں بولتے ہیں اَغْبَطَ عَلَيْنَا الْمَكْرُہُ اَغْبَتِ الدَّبَاتُ پورے پاس پاس اگنا اور زمین کا ان سے ڈھک جانا۔ اَغْبَطَ الْحَشَى علیہ۔ بخار کا لگنا اور رہنا۔ اَغْبَطَ وَاغْبَطَ خوشحال اور شادمان ہونا اَغْبَطَ مِمَّ۔ اَغْبَطَ وَاغْبَطَ کیفیت کاٹنے وقت جتنی مقدار ایک گھی میں آئی ہو۔ غَبُوطٌ۔ اَغْبَطَ خوشحال شادمانی رشک عیسائی پوپ کا لقب۔ اَلْغَبِطُ کجاوہ جس پر ہون لگا یا جائے۔ نرم زمین جس کی جانبیں بلند ہوں یا نہ کا نام جو ٹیلوں کو کاٹ کر اپنا راستہ بنا لے۔ جِ غَبِطٌ۔ سَمَاءٌ غَبِطٌ مسلسل برسنے والا بادل۔ اَرْضٌ مَغْبُطَةٌ گھنے پودوں والی زمین جو ان میں چھپ گئی ہو۔ اَلْغَبِغُ مرغ اور کائے وغیرہ کے جڑے کے نیچے لٹکا ہوا گوشت۔ جِ غَبَا غَبِ غَبَقَهُ دِنَضٌ غَبَقَا وَغَبَقَتْ اَلْمَاءُ شَرَابٌ پلانا۔ غَبَقَ الْغَنَمُ بَرِّی کو شام کے وقت پانی پلانا۔ یا اس کا دورہ نکالنا۔ اَغْبَقَ غَبُوقٌ یعنی شام کی شراب پینا۔ اَغْبَقَ الْخَمْرُ شام کی شراب پینا اَغْبَقَ اَلْغُبُوقُ شام کی شراب مقابل صَبُوح۔ وہ دودھ جو شام کو نکالا گیا ہو۔ اَلْغُبُوقُ وَاَلْغُبُوقَةُ وہ اونٹنی جس کو شام کو دوہا جائے۔ جِ غَبَائِقُ محاورہ کہتے ہیں لَقِیْتَهُ ذَا صَبُوحٍ وَاذَا غُبُوقٌ یعنی میں نے اس سے صبح و شام ملاقات کی۔ اَلْغُبَقَانُ غُبُوقٌ پینے والا۔ بولتے ہیں رَجُلٌ

غُبَقَانٌ وَاَمْرَاؤُا غُبَقِی۔ جِ غَبَا قِی۔ غَبِی دِن، غَبِنَا۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے کو موڑ کر سینا تاکہ تنگ یا چھوٹا ہو جائے۔ چٹٹیں بھرنے۔ غَبِنَ الرَّجُلُ کسی شخص کے سامنے ہونے ہوئے اس کے پاس سے بے اتفاقی سے گذرنا کہ موجودگی کا علم بھی نہ ہو سکے۔ غَبِنَ الطَّعَامُ سنتی و قحط کے زمانہ کے لیے غلہ چھپا کر رکھنا۔ غَبَتَهُ دِن، غَبِنَا وَغَبِنَا۔ فِی الْبَیْعِ اَوَالِیْ شَرَاءٍ خرید و فروخت میں دھوکا دینا۔ اپنا پلہ بھاری کر لینا۔ غَبِنَ فَاِلَا دَامَ بَحَاؤُہِی کسی کو نقصان پہنچانا۔ غَابِنٌ نقصان پہنچانے والا۔ مَغْبُوتٌ جس کو نقصان پہنچایا گیا ہو۔ غَبِنَ دِن غَبِنَا وَغَبِنَا۔ الشَّیْءُ وَفِیْہِ کسی چیز کو بھول جانا اور اس میں غلطی کر بیٹھنا۔ غَبِنَ غَبِنَا وَغَبَانَةٌ رَاٰیۃٌ ذُنَابَتُہَا کم ہو جانا ضعیف الرئی ہو جانا۔ اَلْغَبِیُّ اَلْقَوْمُ اَلْمَاۡلِیۃُ مِیۡلِیۡہِ کا بعض کو نقصان پہنچانا۔ اَغْبَتِنَ۔ الشَّیْءُ کوئی چیز بغل میں چھپا لینا۔ اَلْغَبْنُ وَاَلْغَبَنُ۔ مِمَّ۔ خرید و فروخت میں دھوکہ بازی۔ اَلْغَبْنُ وَاَلْغَبَنُ وَاَلْغَبَانَةُ رائے کی کمزوری اور بھول جانا۔ اَلْغَبْنُ کپڑے کے ان زائد کناروں کو بھی کہتے ہیں جو کاٹ کر چھینک دیے جاتے ہیں۔ اَلْغَابِنُ اسم فاعل کام چور عمل میں مستی کرنے والا۔ اَلْغَبِیۡنُ وَاَلْمَغْبُوتُ ضعیف الرئی شخص اَلْغَبِیۡنَةُ دھوکہ۔ اَلْمَغْبَانَةُ خسرید و فروخت میں دھوکہ بازی۔

اَلْمَغْبِنُ بغل۔ وادی کا بدترین ریتلا حصہ۔ جِ مَغْبَانٌ۔ غَبِی دِن، غَبَا وَغَبَاؤَةُ۔ الشَّیْءُ وَعِنْدَہُ کسی کی بات کو نہ سمجھنا۔ ناواقف رہنا۔ غَبِی الشَّیْءُ علیہ کسی امر کا مخفی رہنا۔ غَبِی عِنْدَہُ الْخَبَرُ خبر نہ ہونا۔ غَبِی ہنڈہ الشَّیْءُ مخفی رہنا۔ تَغَابَلِ عِنْدَہُ تَغَابَلًا وَتَغَابَلًا کسی چیز سے دانستہ غفلت برتنا۔ تَغَابَلًا وَاسْتَغَابَلًا کسی کو غبی سمجھنا یا پانا۔ اَلْغَبَاءُ زمین کی پوشیدگی۔ اَلْغَبَاءُ مِنَ الثَّرَابِ۔ غبار بلند۔ اَلْغُبُوقَةُ وَاَلْغُبُوقَةُ غفلت۔ اَلْغَبَاؤَةُ وَاَلْغَبِیُّ جہالت کم سمجھی غفلت اَلْغَبِیُّ کم سمجھ، جاہل۔ جِ۔ اَغْبِیَاؤُ اَغْبِیَاؤُ۔ غَبِی تَغْبِیۃً۔ الشَّیْءُ کسی چیز کو چھپا دینا۔ اَلشَّعْرُ بالوں کو کاٹنا یا مونڈنا۔ اَغْبِی۔ السحاب۔ ہلکی بارش برسنا۔ اَلْغَبِیۡتَةُ ہلکی بارش یا بارش کا ایک تیز چھینٹا۔ مِنَ الثَّرَابِ۔ غبار بلند۔ بولتے ہیں جَاءَ عَلٰی غَبِیۃً مِنَ الشَّمْسِ یعنی وہ سورج ڈوبنے کے وقت آیا۔ اَلْاَغْبِیُّ مِنَ الْاَغْصَانِ باہم گھٹی ہوئی شاخیں۔ مَوْنٌ غَبِیَاؤُ۔ جِ۔ غَبِی شَجَرَةٌ غَبِیَاؤُ۔ گنجان شاخوں والا درخت۔ اَلْمَغْبَاۃُ گڑھا جو درندوں کو شکار کرنے کے لیے کھودا جائے۔ جِ۔ مَغَابٍ۔ غَبَتَ دِن، غَبَتَا۔ الطَّعَامُ اَوَالِیْ کَلَامُ کھانے یا بات کا بگڑ جانا۔ الشَّیْءُ فِی الْمَاءِ کسی چیز کو پانی میں ڈبو دینا۔ فَلَانًا کسی کو صدمہ پہنچانا اور اس کا گلا گھونٹنا۔ فَلَانًا بِالْاَصْرِ کسی کو معاملہ

میں دقت اور غم میں ڈالنا
 غَثَّ بِالْكَلامِ - لاجواب کر دینا۔ غَثَّ
 الصَّحْبَكَ - منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ کر
 ہنسی کو چھپانا۔ غَثَّ الْمَاءَ - برتن کو
 منہ سے ہٹائے بغیر گھونٹ گھونٹ
 پانی پینا۔
 غَثَّتْ وَآخَتْ - الطعام - کھانے کو
 بگاڑ دینا۔
 غَثِلَ دَسْ، غَثَرَا - المكان - کسی جگہ
 بہت سے درختوں کا اگنا، ایسی جگہ کو
 غَثِلَ کہتے ہیں۔
 آغَثَمَ - الزَّيَّادَةُ - اتنی کثرت سے کسی
 سے ملنا کہ وہ تنگ آجائے۔
 الْغُثْمُ - دم گھونٹنے والی سخت گرمی۔
 الْغُثْمَتُ - بات صاف کرنے کا۔
 الْأَوْغُثْمُ وَالْغُثْمِيُّ - فصیح بات نہ کر
 سکنے والا۔ جہ - غُثْمٌ وَآغُثْمٌ -
 مؤنث غُثْمَاءُ۔
 غَثَّتْ (ر س ض) غُثَاثَةً وَغُثُوثَةً -
 الشَّاةُ - بکری کا دہلا ہوجانا۔ غَثَّةٌ
 دہل بکری۔ غَثَّ اللَّحْمُ - گوشت
 دہلا ہوجانا۔
 غَثَّ - حَدِيثُ الْقَوْمِ - کلام کا فاسدو
 باطل ہوجانا۔
 غَثَّ (ر ض) غُثًا وَغُثِيًّا - عَلَيْهِ
 الْمَكَانُ - کسی کے لیے جگہ کا ناموافق
 ہونا۔ غَثَّ الْجُرْحُ - زخم سے پیپ
 ہنا۔ ممانوہ۔ فَلَانٌ لَا يَغَثُ
 عَلَيْهِ شَيْءٌ - یعنی فلاں کے نزدیک کوئی
 چیز ردی قابلِ ترک نہیں۔
 آغَثَ - لَافِز ہونا۔ فاسد ہونا۔ آغَثَ فِي
 الْكَلَامِ - بیکار کلام کرنا۔ آغَثَ اللَّحْمَ
 دہلا گوشت خرید لینا۔
 لَاعُثَّتْ - الْخَيْلُ - گھوڑوں کو موسم بہار
 میں کم چرنے کا موقع دینا۔

لَغَثْتُ - الشَّيْءُ - کسی چیز کو قلیل و کم
 مقدار سمجھنا۔
 اسْتَغَثَ - الْجُرْحُ - زخم کا علاج کرنا۔
 اس میں سے پیپ نکالنا۔
 الْغَثُّ - لَافِز، غَثِيْتُ الْجُرْحَ وَغَثِيْتُ
 زخم کی پیپ اور فاسد مادہ۔
 الْغُثِيَّةُ - بیکار چیز کو بھی کہتے ہیں۔ اور
 عقل کی خرابی کو بھی۔
 غَثَرْنَ، غَثَرَا - الْمَكَانُ بِالنَّبَاتِ -
 کھیتی کا لہلہانا۔
 آغَثَرَ - الشَّجَرُ - درخت سے گوند کی قسم
 کا سیال مادہ ہنا۔
 رَاغَثَارَ - الثَّوْبُ - پرانا ہونے کی وجہ سے
 کپڑے کا جگہ جگہ سے بھی جانا بگھس کر
 چھیدا ہوجانا۔
 الْغَثْرُ - کپڑے کے چھید۔
 الْغُثْرُ وَالْغُثْرَةُ وَالْغَثَرَاءُ الْغَثَرَةُ
 پست بطن کے لوگ۔
 الْغَثْرَةُ - فُرَاحِي پیدوار، قحط کی ضد۔
 الْغُثْرَةُ - سبزی مائل سرخ رنگ۔
 الْأَغْثَرُ - وہ چیز جس کا رنگ سرخی مائل ہو۔
 مؤنث غَثَرَاءُ - جہ - غُثْرٌ - وہ کبل
 جس میں اون کے ریشے زیادہ ہوں۔ شیر
 بھڑیا۔ پانی کی کافی، جاہل۔
 الْمُغْثَرُ وَالْمُغْثَارُ وَالْمُغْثُورُ - گوند جو
 درخت سے ہٹے لگتا ہے، مثل شہد کے
 ہوتا ہے مگر بدبودار۔ جہ - مَغَاثِيرُ -
 اَرْضٌ مُغْثَوِيَّةٌ - وہ زمین جس میں
 کھیت لہلہا رہے ہوں۔
 غَثَمَرْنَ، غَثَمَا - لَهُ - کسی کو مال کی
 اچھی خاصی قسط دینا۔
 الْغُثْمَةُ - سیاہی مائل سفیدی۔
 الرَّغْثَمُ - سیاہی مائل سفید چیز مؤنث
 غُثْمَاءُ - جہ - غُثْمٌ -
 الْمَغْثُومُ - وہ چیز جس میں دوسری چیز

کی ملاوٹ ہو۔
 غَثَا يَغْثُو غَثْوًا وَغُثْوًا وَآغَثَى لَغْثَاءً
 - الْوَادِي - نلے میں غثاء یعنی کوڑے
 کرکٹ کا زیادہ ہونا۔
 غَثَا وَآغَثَى - السَّبِيلُ الْمَوْتَعُ - سیلاب
 کا چلا گاہ اور سبزہ زار کی تروتازگی کو ختم
 کر دینا اور ادھر ادھر سے مٹی جمع کر دینا۔
 الْغُثَاءُ وَالْغُثَاءُ - سیلاب کے پانی کا جھاک
 میں کوڑا کرکٹ، درختوں کے گلے ٹپے
 پتے جو سیلاب کے جھاک میں رلے
 ملے ہوں۔
 غَثَى يَغْثِي غُثْيًا - الْوَادِي - بمعنی غَثَا
 الْوَادِي -
 غَثَى - الْكَلَامُ - بات میں بھوٹ سچ ملانا۔
 غَثَّتْ تَغْثِي غُثْيًا وَغُثْيًا وَتَغَثَّتْ،
 تَغْثِيًّا - الْفَنَسُ - جی متلانا۔ غَثَّتْ
 السَّمَاءُ بِالسَّحَابِ - گھٹا چھا جانا۔ یا
 بادلوں کا شروع آنا ہونا۔
 غَثَى يَغْثِي غُثْيًا - الْكَلَامُ - ملاوٹ کی
 بات کرنا ر غَثِيْتُ غُثَى، الْأَرْضُ
 بِالنَّبَاتِ - زمین میں سبزہ کا بہت
 ہوجانا۔
 غَدَّ (ر س) وَغَدَّ غَدًّا - الْبَعِيرُ - اونٹ
 کا طاعون شتری میں مبتلا ہوجانا۔
 غَدَّ وَغَدَّ وَغَدَّ وَغَدَّ غَدًّا غَدًّا غَدًّا غَدًّا
 میں مبتلا ہوجانا۔ مَغْدٌ وَمَغْدُودٌ - وہ
 شخص جسے غدود کی بیماری ہو۔
 غَدَّ - لَصِيْبَةٌ - اپنا حصہ لینا۔
 آغَدَّ - غَدُوْدٌ (گلی) والا ہوجانا۔ آغَدَّ
 عَلَيْهِ - کسی پر غصہ میں بھر جانا۔
 الْغَدْدُ - اونٹوں کا طاعون۔ گلی۔ جہ
 يَغْدَادُ۔
 الْغَدَّةُ - جہ - غَدَّ اِثْنًا - مال کا حصہ سوتا
 الْغَدَّةُ وَالْغَدَّةُ - اونٹوں کا طاعون
 گلی، یعنی سخت گوشت کا ٹکڑا، جو



کھال اور نرم گوشت کے درمیان ابھر
آتا ہے۔ جر۔ غَدْدٌ وَغَدَارٌ۔
عرف عرب میں غَدَّةٌ سببگی کو بھی
کہتے ہیں جس سے خون کا تنقیہ یا اصلاح
کی جاتی ہے۔

الْمُعْدَاؤُ - غصبارا۔ بہت غصہ ہونے والا۔
مذکر و مؤنث دونوں کے لیے۔

غَدَرٌ رَنٌ صٌ س، غَدَرًا وَغَدَرَانًا۔
الرجُلُ وَبہ۔ کسی کے ساتھ بد عہدی
کرنا۔ خیانت کرنا۔

غَدَرٌ دس، غَدَرًا۔ المکانُ۔ کسی جگہ
کیچڑ زیادہ ہو جانا یا پتھروں کا مع درختوں
کے زیادہ ہونا۔ غَدَرٌ عَنْ أَحْصَابِهِ۔
ساتھیوں سے بچھڑ جانا۔ غَدَرُ الرَّجُلِ۔
تالاب کا پانی پینا۔ غَدَرُ اللَّيْلِ۔ رات
کا تاریک ہو جانا۔

أَغْدَرَهُ۔ کسی کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جانا۔
باقی رہنے دینا۔ کسی کو تالاب میں گرا
دینا۔ أَغْدَرَ اللَّيْلُ۔ رات کا تاریک
ہو جانا۔

غَادَرَهُ غَدَارًا وَمَعَادَرَهُ۔ کسی چیز کو
چھوڑ دینا۔ باقی رہنے دینا۔

تَغْدَرُ۔ ساتھ چھوڑ دینا۔

أَغْتَدَرَ الرَّجُلُ۔ تالاب بنانا۔

أَسْتَعْدَرَ۔ المکانُ۔ کسی جگہ کو تالاب
بنانا۔

الغَدَرُ م۔ ہر وہ جگہ جو پتھری اور سخت
ہو۔ پتھروں میں آگے ہوئے درخت۔
وہ کیچڑ جو نہر کا پانی خشک ہو جانے پر
رہ جاتی ہے۔

الغَدَرُ والغَدَرَةُ والغَدَرَةُ والغَدَرَةُ
کسی چیز کا باقی ماندہ حصہ۔

الغَدِيرُ۔ نہر۔ وہ پانی جو سیلاب کے گزرنے
کے بعد گڑھوں میں رہ جاتا ہے۔ گھاس
اور پودوں کا قطعہ۔ جر۔ غَدَرٌ، و

غَدَرٌ وَغَدَرَانٌ وَغَدَرَةٌ۔
الغَدِيرَةُ۔ جر۔ غَدَارٌ۔ عورتوں کی گندھی
ہوئی چوٹی۔ نباتات کا قطعہ۔ جر۔
غَدَرَانٌ۔

الغَادِرُ۔ اسم فاعل، خیانت کرنے والا۔ جر
غَادِرُونَ وَغَدَرَةٌ وَغَدَارٌ۔ مؤنث
غَادِرَةٌ۔ جر۔ غَادِرَاتٌ دَعَوَادِرُ۔

الغَدَرَاءُ۔ تاریکی۔ لَيْلَةُ غَدَرَاءٍ د
غَدَرَةٌ وَمَعْدَرَةٌ۔ اندھیری رات۔

الغَدَرُ وَالغَدَرَةُ وَالغَدِيرُ وَ
الغَدَارُ وَالغَدَرُ۔ بڑا دھوکے باز۔

غدر۔ مرد و عورت دونوں کے لیے
مستعمل ہے۔ جر۔ غَدَرٌ۔ گالی کے طور
پر بھی کسی کو یا غَدَرُ کہتے ہیں اور جمع
کے موقع پر یا ایں غَدَرُ کہتے ہیں۔

یَا غَدَارُ۔ یہ عورت کے لیے گالی ہے۔
غَدَفٌ دَن، غَدَفًا وَغَدَفٌ تَغْدِيفًا۔

لَهُ فِي الْعَطَاءِ۔ کسی پر بہت عطا کرنا۔
أَغْدَفَ۔ اللیلُ۔ رات کی تاریکی چھانا۔

أَغْدَفَ الشَّبَكَةَ عَلَى الصَّيْدِ۔
فکار کے لیے جال پھنسانا۔ أَغْدَفَ

البحرُ۔ سمندر کا مواج ہونا۔
أَغْدَفَ۔ المرأةُ قَبَاعَهَا عَلَى وَجْهِهَا۔

عورت کا منہ پر نقاب ڈال لینا۔
أَغْتَدَفَ۔ منہ۔ کسی سے کوئی چیز بڑی

مقدار میں پھین لینا۔
أَغْتَدَفَ۔ الثوبُ۔ کپڑا تراشنا۔

أَغْدَوْدَفَ۔ اللیلُ۔ رات کا آ جانا اور
تاریکی چھا جانا۔

الغَادِفُ۔ ملاح۔
الغَدَاؤُ۔ لمبے اور سیاہ بال۔ پرندہ کا

سیاہ بازو۔ پہاڑی کوا۔ گدھ کی طرح کا
ایک پرندہ۔ جر۔ غَدَفَان۔

الغَدَفُ۔ نعمت، فراخی مال۔ مَدَّ قِطْعًا
ایسے موقع پر بولتے ہیں۔ هُمٌّ وَغَدَفٌ

یعنی وہ خوشحال ہیں۔
الْمُعْدَفُ وَالغَادِفُ۔ چٹو کشتی چلانے
کی لکڑیاں۔

الغَدْفُلُ۔ لمبا ترنگا شخص۔ بڑے ڈیل
ڈول کا اونٹ۔ بوسیدہ کپڑا۔ جر۔

غَدَاغِلُ۔
غَدِقٌ دس، غَدَقًا وَغَدَقٌ وَغَدَوْدَقٌ

۔ المطرُ۔ خوب بارش برسنا۔
عَيْنُ الْمَاءِ۔ پانی کے چشمے کا گہرا اور

شیریں ہونا۔
غَدَوَقَةٌ۔ شیریں چشمہ۔

أَغْدَقُ۔ العَيشُ۔ معیشت کا فراخ ہونا۔
أَغْدَقَتِ الْأَرْضُ۔ زمین کا سرسبز ہونا۔

غَدَقٌ دس، غَدَقًا۔ المکانُ۔ جگہ کا بارش
سے تر ہو جانا۔ سرسبز ہو جانا۔

غَدِقٌ۔ سرسبز جگہ۔
تَغْدَنُ۔ الغُصْنُ۔ ٹہنیل کا جھومنا۔

أَغْدَوْدَنُ۔ النبتُ۔ نباتات کا ہر ابھر
ہونا کہ سبزی سیاہی مائل ہو۔ الرجُلُ

پاؤں کا ڈھیلا پڑنا۔ گر پڑنا۔ الشَّعْرُ۔
بالوں کا طویل اور گنجان ہونا۔

غَدَّوْدَنُ۔ وہ شخص جس کے بال طویل
اور گنجان ہوں۔

الغَدَنُ۔ نیند، اونگھ، ڈھیلا پن۔ ضعف
والغَدَنَةُ۔ نرمی، نعمت۔

الغَدَانُ۔ وہ شاخ جس پر کپڑے لٹکائے
جاتے ہیں۔

الغَدَانِي۔ تروتازہ جوان۔
غَدَاْدَنُ، غَدَاؤًا۔ صبح کو جانا۔ مطلقاً جانا۔

بمعنی صابری بھی مستعمل ہے، اسم کو رفع او
خبر کو نصب دیتا ہے۔ غَدَا غَدَاؤًا

وَعَدَدَةً وَغَدَدَايَ عَلَيْهِ۔ صبح
سویرے پہنچنا۔

غَدَايَ دس، غَدَاؤًا وَغَدَايَ صبح کا کھانا۔
ضرب المثل ہے۔ "هَلْ لَكَ آتِي"

ع

تَتَغَدَّى بِهِ قَبْلَ أَنْ تَتَحَشَّى بِنَا.
یعنی ہمیں ہلاک کرنے سے پہلے اس کو
ہلاک کرو۔

غَدَى - الرَّجُلُ - صَبَحَ كَأَكْهَانَا كَهْلَانَا.
غَادِي مُعَادَاةً - الرَّجُلُ - كَيْسِي شَخْصٍ كَيْ
پاس سویرے اٹھنا۔ پہنچنا۔

الغَدَى - آئندہ کل کا دن۔ جو دن دور ہو۔
مگر اس کا انتظار ہو۔ مثلاً قیامت کا
دن۔ اس کا اسم منسوب غَدِيٌّ اور
غَدَوِيٌّ ہے۔

الغُدْوَةُ - ج - غَدَايٌ وَغُدُورُ الْغَدَاةِ
ج - غَدَوَاتٌ - وَالْغَدَوِيَّةُ - ج -
غَدَايَا وَغَدِيَّاتٌ - وقت صبح،
طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے
درمیان کا وقت۔ دن کا شروع حصہ۔
محاورہ "هُوَ ابْنُ غَدَا اثْنَيْنِ" یعنی
وہ دو دن کا بچہ ہے۔

الغُدْيَةُ - غَدَاةٌ كِي تَصْبِيحٍ
الغَدَاةُ - صَبَحَ كَأَكْهَانَا - ج - الْغَدِيَّةُ -
الغَادِي - اسم فاعل بصير۔

الغَدِيَّةُ - غَادِيٌّ كَأَمْنُث - وہ بادل جو
صبح کے وقت آئے صبح کی بارش۔ ج -
غَوَادٍ وَغَادِيَّاتٌ -

الغَدِيَّانُ - صَبَحَ كَأَكْهَانَا كَهْلَانَا
الغَدِيَّانُ - مَوْنُثٌ غَدِيَّانٌ -
الْمَغْدِي وَالْمَغْدَاةُ - صَبَحَ هَوْنَةً كِي

جنگہ۔
غَدَرَنُ (ض) غَدَا - الشَّيْءُ - نَافِضٌ كَر
دینا۔ البیضُ - زَمٌّ كَأَكْهَانَا كَهْلَانَا

کا بہرہ پڑنا۔
الْمَغْدَاةُ - الْمَغْدَاةُ فِي الْمَغْدَاةِ
بِزَجَلَانَا - الْجَوْرُ زَمٌّ كَأَكْهَانَا كَهْلَانَا

مادہ نکل پڑنا۔
الْمَغْدَاةُ - الْجَوْرُ زَمٌّ كَأَكْهَانَا كَهْلَانَا
ہو۔ جیسے۔

الغَدِيَّةُ - زَمٌّ كَأَكْهَانَا كَهْلَانَا
کچھ لہو۔

غَدَمٌ (ن) غَدَمًا - لَهُ مِنْ الْمَالِ كَيْ
کو مال کی خاصی مقدار دے دینا۔
غَدَمٌ (ر) غَدَمًا وَغَدَمًا وَغَدَمًا
- الشَّيْءُ - کوئی چیز بہت بے مبری
سے کھانا۔

أَغْدَمَ وَغَدَمَ - الْفَصِيلُ مَافِي
ضَرْعٍ أُقْبِلَ - بچھڑے کا ماں کے تئوں
سے سارا دودھ پی جانا۔

الغُدْمَةُ - مَالٌ كَاحْصَةٍ - ج - غُدْمٌ -
وَالْغُدْمَةُ - دودھ کی کثیر مقدار۔ ج -
غُدْمٌ -

بِئَرُ غَدِيْمَةٍ - بڑا کنواں۔
الغُدْمُ وَالْمَغْدَمُ - بہت کھانے والا۔
پیٹو کہ جو ملے کھا جائے۔

غَدَمٌ هُوَ غَدَمٌ كَرَنٌ خَفِ هَوْنًا - الشَّيْءُ -
متفرق کر دینا۔ چیزوں کو باہم ملا دینا۔
اندازہ سے فروخت کر دینا۔

تَغْدَمُ - فِي الْمَجْلِسِ - غَضَبٌ سَ
پیچھنا۔
الغَدَمَةُ - مَم - شَوْرٌ يَجْ وَبِكَارٍ وَطَافٍ

ڈپٹ۔ ج - غَدَامِيٌّ -
غَدَا (ن) غَدَا - الرَّجُلُ بِالطَّعَامِ
کسی کو کھانا کھلانا۔ الطَّعَامُ الصَّيْبِيُّ

سیر ہونا۔ پیٹ بھر جانا۔ الْعَرَقُ
رگ سے خون بہنا۔ الرَّجُلُ - تَبَزْ
چلنا۔ الْفَرَسُ - تَبَزْ دَوْرَانَا -

غَدِيٌّ تَغْدِيَّةً - الرَّجُلُ - كَيْ كَأَكْهَانَا
دینا۔ پرورش کرنا۔ الْوَقْتُ - خُون
بہہ پڑنا۔

تَغْدِيٌّ تَغْدِيًّا وَغَدِيٌّ لَغْدِيًّا
غَدِيٌّ اور غَدَا کا فعل مطاوع۔
اسْتَغْدَى - الرَّجُلُ - كَيْ كَأَكْهَانَا كَهْلَانَا

زمن پر گرا دینا۔ بچھاڑ دینا۔

الغَدَاةُ - دِه كَهَانَةً كَيْ كَأَكْهَانَا كَهْلَانَا
کی چیز جس سے بدن

الغَادِي - اسم فاعل - غَادِي الْمَالِ -
مال کا انتظام و اصلاح کرنے والا۔ ج -
غَدَاةٌ وَغَادُوْنَ - مَوْنُثٌ غَادِيَّةٌ
ج - غَوَادٍ -

الْأَغْدَى - زیادہ کھانے یا کھلانے والا۔
الغَدِي - ج - غَدَاةٌ وَالْغَدَوِيٌّ - حَالَةٌ
جانوروں کے شکم میں جو کچھ ہو۔ یا

مخصوص بکریوں کے شکم میں چھوٹے
چوپاؤں پر بھی یہ لفظ لولا جاتا ہے۔
الغَدَاةُ - سَمْتٌ زَبَانٌ دَرَارٌ نَشَاطٌ سَ
تیز چلنے والا گھوڑا۔

غَرَوٌ (ن) غَرَا وَغَرَاةٌ وَغُرُوْرًا - دھوکہ
دینا۔ باطل کی رغبت دلانا۔ محاورہ میں
بوتے ہیں۔ مَا غَرَاكَ بِفُلَانٍ - یعنی

تو نے اس کے خلاف کیسے جرات کی۔
غَرَا الْمَاءُ - پانی ڈالنا۔
غَرَا وَغَرَا - الطَّائِرُ فَرَحَةً - پرندہ

کا بچہ کو بھرنا۔ چوگا دینا۔ الْكَارِجُ -
اونٹوں کا چرانا۔ الْمَاءُ - جَذْبٌ هُوَ جَانَا
غَرَوْنٌ - غَرَا وَغَرَا وَغَرَوْرًا (س)

غَرَاةٌ - شَرِيفٌ هُوَ جَانَا -
غَرَا (ض) غَرَا وَغَرَاةٌ - تجسہ بہ کار۔
عاقل ہونے کے بعد بے ہوش بچہ کے

ماند بن جانا۔
غَرَوْنٌ - غَرَا وَغَرَاةٌ وَغَرَوْرًا -
الْوَجْدُ - چہرے کا حسین اور روشن ہو

جانا۔ الشَّيْءُ - سَفِيْدٌ هُوَ جَانَا -
غَرَسَ تَغْرِيسًا وَتَغْرِيسَةً - بِالْشَّيْءِ - کسی
چیز کے لیے تباہی کا سامنا کر دینا۔

الطَّائِرُ - پرندہ کا اڑنے کے لیے پر
تولنا۔ الْقَوْبَةُ - مُشْكٌ بَهْرَانَا -
غَرَسَتْ سَرْبَةً الْخَالِدُ - بچہ کے

دانت اول اول نکھانا۔





غَارَتْ غَوَارًا وَمُعَارَفَةٌ - الشُّوقُ.
کسادبازاری ہوجانا۔ غَارَ التَّجِبَّةُ۔
سلام کم کرنا۔

غَارَتْ - الناقۃ۔ اونٹنی کا دودھ کم ہوجانا۔
تَغَوَّرَ - الفرس۔ ستارہ پیشانی ہونا۔
اِغْتَوَّرَ وَاسْتَغَوَّرَ۔ کسی کے پاس
بے خبری میں پہنچ جانا۔ کسی کو غافل پاکر
حملہ کرنے کی تلاش میں رہنا۔

الغَرَّ مِم۔ زمین کا تنگنا۔ کپڑے یا جلد کی
شکن۔ بولتے ہیں۔ طَوَيْتُ الثَّوْبَ
علی غیرہ۔ یعنی کپڑے کی تہ پہلی شکن
پر کردی۔ زمین میں پتی سی نہر۔ جہ۔
غُرُوسٌ۔

الغَرَّو الغَوَارُ۔ تنوار کی دھار۔
الغَوَارُ۔ تھوڑی سی نیند یا اور کوئی تھوڑی
چیز کسادبازاری ہونا۔ ناقہ کے دودھ
کی کمی۔ جہ۔ اِغْرَقَ۔ کہتے ہیں اَنَا نَا
علی غرارہ وہ ہمارے پاس جلد آیا۔
الغَوَارُ۔ تیرنہ لانے کا نمونہ۔ کہتے ہیں
هُمَّ عَلٰی غَوَارٍ وَاحِدٍ۔ وہ ایک ہی
طرز و نمونہ کے ہیں۔ وَلَدْتُ ثَلَاثًا
بَنِينَ عَلٰی غَوَارٍ۔ عورت نے پے
درپے تین لڑکے جنے۔ لَبِثَ الْقَوْمُ
غَوَارًا شَهِيرًا۔ لوگ ایک ماہ طویل
رہے۔

الغَرَارَةُ۔ غفلت، نوعمری۔
الغَرَّةُ۔ گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہر چیز کا ابتدائی اور
بڑا حصہ۔ مِنْ الْقَوْمِ۔ قوم کا شریف
۔ مِنْ الرَّجُلِ۔ چہرہ، صبر کی روشنی
غلام، لڑکی۔ جہ۔ غُرٌّ۔

الغُوسُ۔ مینہ کی پہلی تین راتیں۔
الغُرَّةُ۔ نا تجربہ کار جوان۔ مَوْنَتُ غُرٍّ و
غُرَّةٌ۔ جہ۔ اَغْوَارٌ۔

الغُرَّةُ۔ غفلت، نا تجربہ کاروں کی جماعت۔

جہ۔ غُرٌّ۔

الغُرَّةُ۔ ایک سیاہ آبی پرندہ۔

الغُرُّ۔ ہلاکت کے درپے۔

الغُرُورُ۔ دھوکے کا ذریعہ، دنیا اور دنیا
کی صفت بن کر بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں:-
الدُّنْيَا الْغُرُورُ۔ غرغره کی دوائیں۔

الغُرُورُ۔ مہم۔ بیہودہ باتیں۔

الغَارُ۔ فَا۔ غافل۔ کنواں کھودنے والا۔

الغَوَارُ۔ بہت دھوکا دینے والا۔

الغَرِيرُ۔ اچھی عادت۔ کہتے ہیں "أَدْبَرَ
غَرِيرُهُ وَأَقْبَلَ هَرِيرُهُ"۔ اچھی عادت

جاتی رہی اور بُری عادت آگئی۔ عمدہ

زندگی۔ جہ۔ غَرَّانٌ۔ کفیل۔ دھوکا

خوردہ۔ نا تجربہ کار جوان۔ جہ۔ اَغْرَقَ

وَاِغْوَاؤُ۔ مَوْنَتُ غَرِيرَةٍ۔ جہ۔

غَرِيرَاتٍ وَغَرَارٍ۔

الغُرِيرُ۔ کہتے ہیں جھٹیلے سے بڑا بھروسے

رنگ کا ایک جانور۔ عرب کہتے ہیں

اَسْمَنُ مِنْ غَرِيرٍ۔ اس کو یغور

اور غُرْغُور بھی کہتے ہیں۔

الْاَغْرُ۔ خوبصورت، ہر سفید چیز۔ اچھے

افعال والا۔ شریف، سردار۔

مِنْ الْاَيَّامِ۔ گرم دن۔ مِنْ الْخَيْلِ

پیشانی پر سفیدی رکھنے والا گھوڑا۔

مَوْنَتُ غَرَّاءُ۔ جہ۔ غُرٌّ وَغَرَّانٌ

الغَرَارَةُ۔ بورا، بھیدا۔ جہ۔ غَرَارٍ۔

الْغَوَارُ۔ پانی کے جلیبے۔

الْمُعَارُ۔ تھوڑے دودھ والی اونٹنی۔ جہ

مَعَارٌ۔ فَلَانٌ مَعَارٌ الْكَمِثُ۔

فلاں بخیل ہے۔

الْمَغُورُ۔ مفع۔ دھوکا خوردہ۔

غَرَبَ دُنْ غَرَبًا۔ جانا۔ فَلَانٌ عَنَّا

جدا ہونا۔ علمدہ ہونا۔ فِی سَفَرِهِ۔

دور کا سفر کرنا۔ غَرَبًا، الرَّجُلُ

دور ہونا۔ النِّجْمُ۔ ستارہ کا

غروب ہونا۔

غَرَبَ دُنْ غَرَابَةً وَغَرَبًا وَغَرَابَةً۔

وطن سے جدا ہونا۔ پرولسی ہونا۔

غَرَبَ دُنْ غَرَابَةً۔ الکَلَامُ۔ کلام کا

غیر واضح اور پیچیدہ ہونا۔ الشَّيْءُ۔

غیر مانوس ہونا۔

غَرِبَ دُنْ غَرَبًا۔ بادِ سموم سے سیاہ

چہرہ والا ہونا۔ غَرَبَ۔ دور ہونا۔ وطن

سے جدا ہونا۔ مغرب میں پہنچنا۔ دور

کرنا۔ علمدہ کرنا۔ مسافرت پر اکسانا۔

جلا وطن کر دینا۔ فِی الْاَرْضِ۔ دور

تک لے جانا۔

اَغْرَبَ۔ مغرب میں جانا۔ ملک میں دور

تک گھس جانا۔ اچھی حالت میں ہونا۔

فَصِیحَ ہونا۔ نوادرات بیان کرنا۔ فِی

الضُّحٰی وَنَحْوِہ۔ بہت ہنسنا۔

الْحَوْضُ۔ حوض بھرنا۔ الْفَرَسُ فِی

جَدْرِیہ۔ گھوڑے کا بہت دوڑنا۔

الْفَرَسُ۔ گھوڑے کو دوڑا کر مارنا۔

علمدہ کرنا۔

اَغْرَبَ وَاغْرَبَ۔ المَرِیضُ۔ بیمار کا

بہت دردمند ہونا۔ اَغْرَبَ عَلَیْہِ و

بَلَّہُ بَرًّا سَلُوکَ کرنا۔

تَغَوَّبَ۔ وطن سے نکلنا، مغرب سے آنا۔

اِغْتَوَّبَ۔ وطن سے نکل جانا۔ غیر اقارب

میں شادی کرنا۔

اِسْتَغَوَّبَ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کو عجیب پانا یا

جاننا۔ الدَّمْعُ۔ آسو ہنا۔ و

اِسْتَغَوَّبَ، فِی الضُّحٰی۔ بہت

ہنسنا۔

الْغَرِبُ۔ مہم۔ مغرب۔ ہر چیز کی ابتداء۔

دھار، نشاط، تیزی کہتے ہیں۔ اِلَّا فِی

اَخَافُ عَلَیْكَ غَرِبَ الشَّيْبَابِ۔

یعنی میں تمہاری جوانی کی تیزی سے

ڈرتا ہوں۔ بڑا ڈول۔ ہمیشہ جاری

رہنے والی آنکھ کی رگ۔ آنسو بننے کی جگہ۔ آنکھ کا اگلا حصہ۔ آنکھ کا پچھلا حصہ۔ ڈوری، آنکھ کی پھنسی۔ گوشہ چشم کا درم۔ ہتھوک کی کثرت۔ تیز رو گھوڑا۔ سہمہ غریب و سہمہ غریب۔ تیر جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔ ج۔ غروب۔

الغربة۔ دوری۔ الغریب۔ مصر۔ سونا چاندی، پیالہ، شراب پانی جو کنز اور حوض کے درمیان ڈول سے ٹپکے۔ سہمہ غریب و سہمہ غریب۔ وہ تیر جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔

الغراب۔ کوا۔ ج۔ اغرب و غرب و غربان و اغربة۔ وجہ۔ غرابین۔ طائر غرابہ۔ وہ حوان ہو گیا۔ ارض لا یطیر غرابھا۔ سرسبز زمین۔

الغراب۔ اول۔ برف، سر کا پچھلا حصہ۔ من کل شیء ہر چیز کا شروع۔ دھار سیاہی۔ دوسری۔ صبح اٹھنے اور چوکس رہنے میں کوئے کی مثال دی جاتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ بکرت بکور الغراب میں کوئے کی طرح صبح سویرے اٹھا فلان احذر من الغراب۔ فلاں کوئے سے زیادہ چوکتا اور چوکس ہے ذوق هذا شیب الغراب۔ کوئے کی سیاہی اس سے کم ہے۔ اغربة الغریب۔ عرب کے سیاہ لوگ۔ الغراب۔ پرانی قسم کی ایک کشتی۔

الغرابان۔ دونوں سرینوں کے نچلے حصے جو رانوں سے ملتے ہیں۔

الغارب۔ فا۔ کندھایا کوہان اور گروں کے درمیان کا حصہ۔ ہر چیز کا اوپر کا حصہ

ج۔ غوارب۔ غوارب الماء۔ بلند موجیں۔

الغریب۔ وطن سے دور۔ ج۔ غرباء۔ عجیب، غیر مانوس۔ من الكلام۔ دور از فہم کلام۔ مؤنت غریبہ۔ ج۔ غراب۔

الغریب۔ غریب۔

المغرب۔ صبح ہر چیز سفید، یاسفید کناروں والی شے۔

المغرب۔ سورج ڈوبنے کی جگہ۔ شمالی افریقہ۔

المغربی۔ مغرب کا باشندہ۔ مغربی البحر یا ک رہنے والا۔ ج۔ مغاربة۔

الغریب۔ بہت سیاہ رہہ اکثر تاکید کے طور پر آتا ہے۔

غریب غریبہ۔ الحنطة۔ گیہوں چھاننا۔ الملک۔ ملک کے باشندوں کا حال کھولنا۔ فی الارض۔ ملک میں

بانا۔ الشیء۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الگ الگ کرنا۔ القوم۔ قوم کو قتل

کرنا۔ کل ڈالنا۔ الغریب۔ چھنی، ڈف، چغل نور۔ ج۔ غرابیل۔

المغربیل۔ دفعہ گھٹیا۔ مقتول۔ پھولا ہوا۔ زوال پذیر ملک۔

غریث (رس)۔ ٹھٹھا۔ بھوکا ہونا۔ صفت (غریثان)۔ ج۔ غری و غرا و غراٹ۔ مؤنت غری۔ ج۔ غوات۔

غوات۔ کتے کا بھوکا رکھنا۔ الغریث والغراٹ۔ بھوکا۔

غرد رس، غردا و غردا و آغرد و آغرد۔ الطائر۔ پرندہ کا بلند آواز سے گانا۔ آغرد الطائر۔ پرندہ کا کاکر خوش کرنا۔

استغرد۔ گانے کے لیے آسانا۔ الاغرد والاعرود۔ پرندہ کا گیت اور اس کی سری آواز۔ ج۔ اغریب۔

الغرد والغرد والغریب۔ گانے والا۔ غرد (من) غردا۔ بالابرة دعوها

سوئی وغیرہ چھوٹا۔ الراكب رجل۔ فی العز۔ رکاب میں پاؤں رکھنا۔

عودا بالارض۔ زمین میں لکڑی کاڑنا۔ عزت الجراد۔ ٹڈی کا زمین میں دم کاڑ کر اٹھنے دینا۔ صفت غار و غار۔

غیرت دس، غورا۔ نافرمانی کے بعد اطاعت کرنا۔

غرد۔ الابرة فی الشیء۔ کسی چیز میں سوئی چھوٹا۔ عزت الجراد۔

ٹڈی کا اٹھنے دینے کے لیے زمین میں دم چھوٹا۔ الغنم۔ بکری کا دودھ دوہنا چھوڑ دینا تاکہ وہ موٹی ہو جائے۔

اعرد۔ الابرة۔ بمعنی غور۔ الوادی غر نامی پودہ اگانا۔

اعتر۔ فی الشیء۔ داخل ہونا۔ اعتر۔ السیر۔ روانگی قریب ہونا۔

السیر۔ روانگی کے قریب ہونا۔ سوار ہونا۔ الراكب رجلہ فی

العز۔ سوار کا رکاب میں پاؤں رکھنا۔ العز۔ رکاب۔ زمین میں گاڑی ہوئی لکڑی۔ ج۔ غور۔ الزم غرد فلاں۔

اس کی رکاب کو پکڑے رہو۔ اس کے فرمانبردار رہو۔

الغرد۔ ایک چھوٹا پودا۔ الغریث۔ طبیعت فطرت۔ ج۔ غرایث۔

فا۔ کم دودھ والی اوستی۔ عیون غور۔ نہ بننے والا چشمہ۔

التغریث۔ ج۔ تغریث۔ بھوکا پودہ جو ایک جگہ سے اکیر کر دوسری جگہ لگایا



الْمَغْرُورُ - گارنے کی جگہ - جہ - مَعَارِزُ -
عَرَسَ (رض) غَرَسًا وَغَرَسَةً وَاعْرَسَ
- الشَّجَرُ - درخت لگانا۔

الْعَرَسُ - درخت کا لگانا۔

الْعَرَسُ - جو چیز زمین میں لگائی جائے۔ پانی
جو بچہ کے ساتھ رحم میں سے آئے۔

تھوڑا سا - جہ - اَعْرَاسٌ -

الْعَرِيسُ - لگا یا ہوا پودہ - بیڑ -

الْعَرِيسَةُ - کھجور کا پودا جو ابھی اگا ہوا ہو۔

ہوئی گھٹلی - انگوڑی کی پیل جو ابھی بٹھائی

گئی ہو۔ پودہ لگانے سے پھلدار ہونے

تک - جہ - عَرَّاسٌ وَغَرَّاسٌ -

الْعَرَّاسُ - لگا یا ہوا درخت - لگانے کا

وقت یا فعل -

الْمَغْرَسُ - پودہ لگانے کی جگہ - جہ -

مَعَارِيسُ -

الْعَرِيشُ - مین المستنکات - ایک سکہ

دو آنے کے مساوی - جہ - غُرُوشٌ -

غِرَاضٌ (رس) غَرَضًا - الیاء مشتاق ہونا۔

صفت (غَرِضٌ) منہ - اکتانا - طول

ہونا - ڈرنا۔

غَرَضٌ (رض) غَرَضًا - الزنا - برتن

بھرنے کا واسطہ بھرنے - الشیء - تازہ

چننا - وقت سے جلدی کرنا - روکنا - ایسا

توڑنا کہ جہاں نہ ہو - غَرِيبًا - تازہ

دودھ پلانا۔

غَرَضٌ (رض) غَرَضًا - اللحم - گوشت

کا تازہ ہونا - صفت (غَرِيبٌ) - جہ -

اَعَارِيبُ -

غَرَضٌ - مزاج کرنا - تازہ گوشت - الشیء -

تازہ چننا - فی سَفَايَا - نہ بھرنے -

هُوَ بِحُورٍ اَيُّ غَرَضٍ - وہ نہ ختم ہونے

والا سمندر ہے۔

غَرَضٌ - خلائق - سستانا - تنگدل کرنا - الغرض

صحیح نشانہ پر مارنا - الزنا - برتن

بھرنے -

غَارَضٌ - الابل - اونٹوں کو صبح کے وقت

پانی پر لانا۔

تَغَرَّضَ وَتَغَرَّضَ - الغَضَبُ - ٹپنی کا

مڑ کر ٹپنا - مگر جہاں نہ ہونا۔

اَعْتَرَضَ - الشیء - شست باندھنا۔

اَعْتَرَضَ فُلَانٌ - جوان مرجانا۔

الغَارَضُ - فاصح کو پانی پر آنے والا - لمبی

ناک - اَتَيْنْتُكَ غَارِضًا - میں اس کے

پاس دن کی ابتداء میں آیا۔

الغَرَضُ - مم - جہ - غَرَضَاتٌ وَغَرَضَاتٌ

وادی کی ناقص شاخ - اَعْرَاضٌ وَ

غُرُوشٌ وَغَرَضَةٌ - جہ - غَرَضٌ -

غُرُوشٌ وَغُرُوشٌ - کجاوہ کا تنگ -

الغَرَضُ - مم - حاجت، مقصد - نشانہ -

جہ - اَعْرَاضٌ -

الغَرِيبُ - خوش کن گیت - عمدہ گویا - ہر

سفید تازہ چیز بارش کا پانی - وہ پانی

جس پر صبح سویرے آئیں - تازہ

گوشت و پھل -

الْاِعْرَاضُ - شگوفہ - ہر سفید ترو تازہ -

جہ - اَعَارِيبُ -

الْمَغْرُوضُ - مفع - بارش کا پانی - الْمَغْرُوضُ

اونٹ کا تنگ - جہ - مَعَارِضٌ -

الغَرُوضُ - زم بڑی جیسے ناک، کان

وغیرہ کی - جہ - غَرَضِيفٌ - الغُرُوضَانِ

اونٹ کے پالان کے ہر دو طرف کی

کھڑیاں -

غَرَضٌ غَرَضَةٌ - غَرَضٌ - غَرَضٌ

الْقِدْرُ - بانڈی کا جوش کے وقت

آواز نکالنا۔

غَرَضَةٌ - ذبح کرنا - غَرَضَةٌ بِالْمُصِحِّ

حلق میں نیزہ مارنا - الرجل - مگوگیر

آواز نکالنا - موت کے وقت غرغری

آواز نکالنا - اللحم - گوشت سے

بھٹنے وقت آواز نکالنا۔

تَغَرَّغٌ - بالماء أو الدَّوَاءِ - پانی سے

یاد دل سے غرغہ کرنا - تَغَرَّغْتُ

الْعَيْنُ بِالْمُصِحِّ - آنکھ میں آنسوؤں

کا ڈپل کرنا۔

الغَرِيبُ - چینی مرغی - واحد (غَرِيبَةٌ)

الغَرِيبَةُ - پرندہ کا پوتا، پیشانی کی سفیدی

فُلَانٌ غَرِيبٌ - فلان شریف ہے۔

غَرَفَ (رض) غَرَفًا - الشیء - کاٹنا۔

نَاصِيئَتُهُ - پیشانی کے بال تراشنا۔

وَاغْتَرَفَ الْمَاءَ بِيَدِهِ - پانی سے

چلو بھرنے۔

تَغَرَّفَهُ - تمام لے لینا - اَلْغَرَفُ الشَّيْءُ -

کٹنا - مڑنا - لُوطًا - الْعَطْلُ - بڑی

کا لُوطًا - فُلَانٌ - مڑنا۔

الغَرَفُ - مم - (و - والغَرَفُ) وہ پودا جس

سے چڑھ کر لگا جائے۔

الغَرَفَةُ - چلو بھرنے کی ہیٹ - جوتا - جہ -

غَرَفٌ - الغَرَفَةُ - جہ - غَرَفٌ -

والغَرَفَةُ - چلو بھرنے کی وغیرہ - جہ -

غَرَفٌ وَغَرَفَاتٌ وَغَرَفَاتٌ وَ

غَرَفَاتٌ - کوٹھری در کوٹھری - بالاخانہ

بالوں کا گچھا۔

الغَرِيقَةُ - مَوْنَةُ الْغَارِثُ - مِنَ النَّوْقِ

تیز رفتار اونٹنی - جہ - غَوَارِثُ -

الغَوَارِثُ - ایک بڑا ہیماں۔

الغَوَارِثُ - بہت چلو لینے والا - تَهْدٌ

غَوَارِثٌ - بہت پانی والی نہر - غَدِثٌ

غَوَارِثٌ - بہت بارش۔

الغَوُورُ - مِنَ الْاَبَارِ - وہ کنواں جس سے

پانی چلو سے لیا جائے۔

الغَرِيبُ - مِنَ الشَّجَرِ - بہت گنجان اور

گھنا درخت - بانس زکل وغیرہ کی

جھاڑی۔

الغَرِيقَةُ - گھنا درخت - جوتا - تلوار کے



پرتے کے نیچے کا چڑا۔
 الیغورق۔ تیرفتا رکھوڑا۔ جر۔ مکارف۔
 الیغورق۔ چچم، دوڑ۔
 غرق دس، غرقا۔ صفت رغرق و
 غارق و غریق، جر۔ غرق۔
 غرق فلان۔ بے پرواہ ہونا غنی
 ہونا۔
 غرق دن، غرقا۔ من اللہ۔ دودھ
 وغیرہ کا گھوٹ پینا۔
 اغرق۔ فی الامر۔ کام میں مبالغہ کرنا۔
 حد سے بڑھنا۔
 اغرق و غرقہ۔ ڈبونا۔
 اغرق و غرق۔ فی القویں۔ کان کو
 بت کھینچنا۔ غرق اللجام۔ پا
 لیفتہ۔ لگام کو چاندی سے مزین و
 آراستہ کرنا۔
 اغرق۔ اعمالہ بالمحاصی۔ نیک عملوں کو
 گناہوں سے برباد کر دینا۔
 غارقہ۔ نزدیک آنا۔
 اغرق۔ النفس۔ زور سے ہنسا۔
 البعیر التصدیق۔ اونٹ کی موٹائی
 کی وجہ سے اس کے تنگ کا کس جانا۔
 تنگ ہونا۔ القدس الخیل۔ گھوڑے
 کا گھوڑوں میں گس کر آگے بڑھ جانا کہتے
 ہیں۔ فلان یغرق العین۔
 خوبصورتی کی وجہ سے جاذب نظر ہونا۔
 استغرق۔ الشیء۔ سب لے لینا۔
 الغایۃ۔ حد سے آگے بڑھنا۔ فی
 النوم۔ گہری نیند سونا۔ فی الضحک
 کھل کھلا کر ہنسا۔
 اغرقت۔ العین۔ آنکھ کا آنسوؤں
 سے بھر جانا۔
 الغرقۃ۔ دودھ وغیرہ کا گھوٹ۔ جر۔
 غرق۔
 الغاریقون و الارغریقون۔ ایک پودہ کی

جڑ جو زم کے لیے تریاق ہے۔
 غرقات۔ الدجاجة بیضتھا مرغی
 کا کچی انڈہ ڈالتا۔ البیضة۔ کچا
 انڈا کرنا۔
 الغرق۔ انڈے کی سفیدی کی جھلی۔ انڈے
 کی سفیدی۔
 غول دس، غول۔ الصبی۔ بچہ کا غیر مختون
 ہونا۔ صفت اغول۔ مون غولاء
 جر۔ غول۔
 الغول۔ ڈھیلا ڈھالا آدمی۔ بے تکالبا نیزہ۔
 الاغول۔ سرسبز کا سال۔ آسودہ زندگی۔
 الغولۃ۔ وہ کھال جس کو سنتے کے وقت
 کاٹا جاتا ہے۔ جر۔ غول۔
 غوم دس، غوما و غوما و غوما و
 مغوما۔ الدین و نحوہ۔ قرض
 وغیرہ ادا کرنا۔ فی التجارۃ۔ تجارت
 میں ٹوٹا ہونا۔
 اغرمہ و غرمہ۔ الدین۔ قرض ادا
 کرنے کے لیے مجبور کرنا۔
 غرم۔ برسا۔ اغرم۔ بالشیء۔ بہت
 مشتاق و دلدادہ ہونا۔ صفت
 مغرم۔
 لغرم۔ تاوان برداشت کرنا۔ اپنے ذمہ لینا۔
 اغرم۔ قرض کی ادائیگی کا ذمہ لینا۔
 الغرامۃ و الغرم۔ قرض، تاوان، ضرر،
 مشقت۔ الغرام۔ شوق، عشق،
 ہلاکت، عذاب، دکھ۔
 الغریح۔ قرضخواہ۔ قرض دار۔ مخالف۔
 جر۔ غرماء و غرام۔
 غون دس، غونا۔ العجین۔ گوندھے
 ہوئے آٹے کا مشک ہونا۔
 الغون۔ ضعیف، کمزور۔
 الغرین و الغرین۔ سیلاب کی لائی ہوئی
 مٹی۔ جھاگ، بے وقوفی۔
 الغرین و الغرین و الغرین۔ ایک پودہ کی

سارس سے مشابہ ایک آبی پرنڈہ۔ خوبصورت
 جوان لڑکایا لڑکی۔ جر۔ غرائق و
 غرائق و غرائق۔
 غرا یعرو غرا۔ الرجل۔ تعجب کرنا۔
 الجلد۔ سریش سے جوڑنا۔ الشحم
 قلبہ۔ چربی کا دل کو ڈھک لینا۔
 غوی یغوی غرا و غرا و غری و
 وغری و غری۔ الغایۃ۔ تالاب
 کے پانی کا سرو ہونا۔ فلان۔ بہت
 ناراض ہونا۔ غراۃ۔ بلہ۔ چمٹنا۔
 لازم ہونا۔
 غری تغریۃ۔ الشیء۔ سریش سے جوڑنا
 چمکانا۔
 اغوی۔ الرجل بکذا۔ ترغیب دینا۔
 اکسانا۔ اغوی العداۃ بینہم
 آپس میں فساد کرنا۔
 غاری غرا و مغارۃ۔ فلان۔ کسی
 سے سخت جھگڑا کرنا۔ بین الشیخین
 دو چیزوں کا جوڑنا۔ ایک کے بعد دوسرے
 کا لگاتار کرنا۔
 الغرا و الغرا۔ وہ چیز جس سے طلا کیا
 جائے جس سے ورق یا کھال کو جوڑیں۔
 الغرا و الغری۔ کسی چیز کی بہت
 خواہش یا اشتیاق۔ لاغروی ولا
 غروی من کذا۔ کوئی تعجب نہیں۔
 الغری۔ خوبصورت۔ عمدہ عمارت۔
 الغریان۔ جہم کے علاقہ میں دو خوبصورت
 عمارتیں تھیں۔
 الیغراۃ۔ سریش لگانے کا اوزار۔
 غردن، غزرا و غزرا۔ بھلان
 خاص کرنا۔
 غارۃ مغارۃ۔ سبقت کرنا۔ جھگڑنا۔
 اغز۔ الشجر۔ درخت کے کانٹوں کا کثرت
 سے ہونا اور سخت ہونا۔ اغزت
 البقرۃ۔ گائے کا مشکل سے بچر جانا۔



غ

تَغَاَزَل - القوم الشبی آئیں میں جھکنا۔
الغَزْلُ - باجھ۔ ترکوں کی ایک قوم۔ واحد
(غَزْلٌ)۔

غَزَزَتْ - غَزَزًا وَغَزَزَةً وَغَزَزًا -
الماءُ وَجَمْعُهُ - پانی وغیرہ کا بہت
ہونا۔ غَزَزَتْ النافۃُ - اونٹنی کا
دودھ وال ہونا۔

أَغْزَرَ - بہت دودھ والی اونٹیاں رکھنا یا
بہت بارش میں ہونا۔ المَغْرُوفُ -
بہت سخاوت کرنا۔

تَغَزَّرَ - الرجلُ - زیادہ گوشت والا ہونا۔
موٹا ہونا۔

غَاذَرٌ وَاسْتَحْزَرٌ - بہت لینے کی امید پر
تھوڑا دینا۔

الغَزْرُ - مہم۔ لہجہ کی شاخوں کی لڑائی۔
دوالغَزَارَةُ (کثرت)۔

الغَزِيرُ - زیادہ بہت۔ جہ۔ غَزَارٌ -
الغَزِيرَةُ - مؤنث الغَزِيرُ - مِنَ المَوْنِ -

بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ مِنَ
الغُبُوبِ - بہت آسوسانے والی آنکھ۔

- مِنَ الْكِبَارِ وَالْيَنَابِيعِ - بہت پانی
والے کنہیں اور چشمے۔ جہ۔ غَزَارٌ -

الْمَغْزَارُ - مِنَ الْإِبِلِ - بہت دودھ
دینے والی اونٹنی۔

غَزَلَ دَضً، غَزَلًا وَغَزَلًا - الصُّوفُ
اون کا تنا۔

غَزَلَ دَسً، غَزَلًا - بِالنِّسَاءِ - عورتوں
سے باتیں کرنا۔ عورتوں کی خوبصورتی

اور جمال کی تعریف کرنا۔ ان سے عشق
بازی کرنا۔

غَاذَلَ - الْمَرْأَةُ - عورت سے محبت و پیار
کی باتیں کر کے پھسلانا۔

غَاذَلَ فَلَانٌ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْعُمُرِ -
فلان شخص عمر کے چالیسویں سال کے
قریب پہنچا۔

أَغْزَلَتْ - الْغُطْبِيَّةُ - ہرنی کا بچہ والی ہونا۔
المرأةُ - عورت کا تکلہ پھیرنا۔

تَغَزَّلَ - فَلَانٌ - بتکلف عشق بازی کرنا۔
تَغَاذَلَ - القومُ - ایک دوسرے سے

محبت و پیار کی باتیں کرنا۔
الغَزْلُ - مہم۔ کاتا ہوا۔

الغَزْلُ - مہم۔ عورتوں سے لہو و لعب۔
الغَزَالُ - ہرن کا بچہ۔ ہرن۔ جہ۔ غَزْلَةٌ

وِغَزْلَانٌ۔
الغَزَالَةُ - ہرنی چڑھنے کے وقت کا سورج

غَزَالَةُ الصُّبْحِ وَغَزَالَاتُهُ - چاشت
کے وقت کا شروع۔

الغَزْلُ - عورتوں سے پیار و محبت کی باتیں
کرنے والا۔ کوشش میں کمزور۔

الغَاذِلَةُ - مؤنث الغَاذِلُ - جہ۔ غَزَلٌ
وِغَاذِلٌ۔

الغَزِيلُ - عورتوں سے باتیں کرنے والا۔
الغَزَالُ - بہت کاتنے والا۔

الْأَغْزَلُ - غَزَلٌ کا اسم تفضیل۔ مِنَ
الْحُثَى - بار بار آنے والا بخار۔

الْمَغْزَلُ وَالْمَغْزُولُ وَالْمَغْزُولُ - تکلہ۔
جہ۔ مَغَاذِلٌ۔

الْمَغْزِيلُ - تصغیر مَغْزُولٌ - ایک قسم کی
باریک رسی۔

غَزَاهُ يَغْزُوهُ غَزْوًا طَلَبَ كَرْنًا - قصد
کرنا۔ غَزُوًا وَغَزَاوَةً وَغَزَوَانًا،

القومُ - رٹنے کے لیے نکلنا۔ لوط
کے لیے حمل کرنا۔

غَزَى وَغَزَى - فَلَانًا - لڑائی کے لیے
روانہ کرنا یا تیار کرنا۔ برا ٹیکہ کرنا۔ کا

مقروض کو ملت دینا۔
أَغْزَى رَغْزَاءً - فَلَانًا - قصد کرنا۔

بہ۔ دوستوں میں سے چُن لینا۔
مخصوص کرنا۔
الغَزْوَةُ - ایک لڑائی، ایک حملہ۔ جہ۔

غَزَوَاتٌ

الغَاذِي - اسم فاعل۔ لڑائی کرنے والا۔ فاتح،
اسلام کا حامی۔ جہ۔ غَزَاةٌ وَغَزَى

وِغَزَى وَغَزَاءً - مؤنث غَاذِيَةٌ
جہ۔ غَوَارِزٌ وَغَاذِيَاتٌ۔

الغَزَاةُ - جہم، حملہ۔ جہ۔ غَزَوَاتٌ۔
الغَزْوَةُ - جس کا قصد کیا جائے، جس کو

طلب کیا جائے۔
الْمَغْزَى - جنگ کرنا۔ جنگ کرنے کی جگہ۔

مَغْزَى الكلامِ - مقصد کلام۔ جہ۔
مَغَاذٍ - المَغَاذِي - غازیوں کے

مناقب۔ غازیوں کے کارنامے۔ امرأَةٌ
مُغْزِيَةٌ - وہ عورت جس کا خاوند جنگ

میں ہو۔ نَاقَةٌ مُغْزِيَةٌ - دیر سے
جننے والی اونٹنی۔

غَسَّ دَنَ غَسًّا - فِي الْبَلَاءِ - ملک میں
گھس جانا۔ الكلامُ - کلام میں نقص

نکالنا۔ كُ فِي الْمَاءِ - پانی میں ڈبونا۔
- السَّهْدُ - بل کو دھتکارنا اور غس

کنا۔
لَاغْسٌ - فِي الْمَاءِ - ڈوبنا۔ الغُسُّ -

کمزور، حقیر۔
غَسَّانٌ - یمن کے ایک قبیلہ کے بڑا کبر

کا نام جس کے اولاد سے ملوکِ غسان
تھے۔

غَسَّرَ دَنَ غَسْرًا - عَلَى الْغَرِيحِ مَقْرُوفٍ
پر سنبھل کرنا۔

تَغَسَّرَ - الغَزْلُ - دھاگے کا پٹا ہوا اور
اُلْجَا ہوا ہونا۔ الامرُ - کام کا پیچیدہ

ہونا۔ صفت دَغْسَرٌ۔
الْعَسْرُ - کوڑا کرکٹ جس کو ہواتالاب میں

ڈال دے۔
أَغْسَفَ - اندھیرے میں داخل ہونا۔ اندھیر

میں چلنا۔
غَسَقَ دَضً، غَسَقًا وَغَسَقًا وَغَسَقَانًا

أَغْسَقَ - اللَّيْلُ - رات کا بہت تاریک
 ہونا۔ أَغْسَقَ الرَّجُلُ - تاریکی میں
 داخل ہونا۔
 غَسَقَ رَمَضٌ غَسَقًا وَغُسُوقًا وَغَسِقَ
 (س) غَسَقًا - الماءُ - پانی کا گرنا۔
 الغَيْمُ - بادل سے بارش پڑنا۔
 العَيْنُ - آنکھ میں آنسوؤں کا ڈبڈبانا۔
 اور آنکھ کا تاریک ہونا۔
 الغَسَقُ - رات کے پہلے حصہ کا اندھیرا۔
 الغَايِقُ - فَا - چاند۔ رات جبکہ اس کی تاریکی
 بڑھ جائے۔ سیاہ ساپ۔
 الغَسَاقُ وَالْغَسَاقُ - ٹھنڈا، سرد۔
 بدلوار۔
 غَسَلَ رَمَضٌ غَسَلًا وَغُسْلًا - الشَّيْءُ -
 چیز کو پانی سے پاک کرنا اور میل کچیل دور
 کرنا۔ غُ - تکلیف دہ مارنا۔
 غَسَلَ الشَّيْءُ - دھونے میں مبالغہ کرنا۔
 الْغُسْلُ - دُھلنا - الشَّيْءُ - ہنا۔
 رَاغْتَسَلَ - ہانا۔ بِالْطَّيْبِ - خوشبو لگانا۔
 الْفَرْسُ - گھوڑے کو پسینہ آنا۔
 الْغُسْلُ وَالْغُسْلُ - غَسَلَ -
 الْغُسْلُ وَالْغُسْلُ - جہ - أَغْسَالَ -
 الْغُسْلُ وَالْغُسْلُ وَالْغُسْلُ -
 دھونے کی چیز جیسے صابن وغیرہ۔
 الْغُسَالَةُ - مِنَ الشَّيْءِ - صاف کرنے کا
 پانی۔ دھونے سے جو پانی خارج ہو۔
 نہانے میں جو پانی بدن سے گرے۔
 الْغُسِيلُ - دھویا ہوا۔ نہلایا ہوا۔ دھونے
 کے قابل کپڑا۔ جہ - غَسَلِي وَغُسْلًا -
 مَوْنٌ غَسِيلَةٌ - جہ - غَسَالِي -
 الْغَاوِلُ - صابن وغیرہ جو دھونے کے
 کام آئے۔ ایک پودہ کا نام جس سے
 دھوتے ہیں۔
 الْغَسَالُ - دھوبی۔ نہلانے والا۔
 الْمَغْسَلُ الْمَغْسِلُ - جہ - مَغَايِسِلُ

وَالْمَغْسَلُ - جہ - مَغْسَلَاتُ -
 غسل خانہ، دھونے کا مکان۔ لائڈری۔
 الْمَغْسَلُ - وہ پانی جس سے نہایا
 جائے۔
 الْمَغْسَلُ - وہ چیز جس سے دھویا جائے۔
 الْمَغْسِلَةُ - دھونے کا برتن۔
 غَسَلِي - چھین لینا۔
 غَسَمَ رَمَضٌ غَسَمًا وَغَسَمًا - اللَّيْلُ
 رات کا تاریک ہونا۔ صفت غَا سَمَ
 الْغَسَمُ - سیاہی۔ تاریکی۔ خاکستری۔
 الْغَسَمُ وَالْغَسَامُ - آسمان میں بادل
 کے ٹکڑے۔
 غَسَمَ رَمَضٌ غَسَمًا - الشَّيْءُ - چبانا۔
 غَسَاتِ الْقَلْبُ وَغَسَانَةُ - دل کے
 انتہائی گوشے۔
 الْغَسَانُ وَالْغَيْسَانُ - جوانی کی تیزی۔
 مَا أَنْتَ مِنْ غَسَانِيَةٍ أَوْ غَسِيَانِيَةٍ -
 تو اس کے مقابلہ کا نہیں۔
 الْغَسَانِيَةُ - بہت خوبصورت۔
 الْغُسْنَةُ وَالْغُسْنَةُ - بالوں کا گچھا۔ جہ
 غُسْنٌ وَغُسْنَاتٌ وَغُسْنَاتٌ -
 الْأَغْسَانُ - لوگوں کے اخلاق۔
 غَسَا يَغْسُو غَسَوًا وَغَسِي يَغْسِي
 غَسَى وَغَسَى - اللَّيْلُ - رات کا
 تاریک ہونا۔
 الْغَسَاةُ - کچی کھجور۔
 غَسَاةُ رَمَضٌ غَسَاةً وَغَسَاةً - خلاف
 ضمیر ظاہر کرنا۔ دھوکا دینا۔ بددیانتی
 کرنا۔
 أَعْفَقَهُ - خیانت میں ڈالنا۔ دھوکے میں
 ڈالنا۔ أَعْفَقَهُ عَنْ حَاجَتِهِ - حاجت
 سے ہٹانا۔ باز رکھنا۔
 رَاغْتَشَّ وَاسْتَشَشَ - الرَّجُلُ - دھوکے
 باز یا منافق سمجھنا۔
 الْغُشُّ - فریب، دھوکا۔ کینہ، خیانت،

دل کی سیاہی، ترشروی، ہر چیز کی کدورت
 جعلی سکھ۔
 الْغُشُّ - جہ - غُشُونٌ وَالْغُشُّ - جہ۔
 غُشْنَةُ وَغُشْنَانُ - بہت دھوکا
 دینے والا۔ منافق۔
 الْغُشْنُ - گدلا پانی۔ جعلی سکھ۔
 الْغُشَانُ وَالْغُشَانُ - تاریکی کا شروع
 یا آخر۔
 الْغُشُونُ - منع۔ کھوٹا۔ جعلی۔ ملاوٹ والا۔
 غُشْمُهُ رَمَضٌ غُشْمًا وَتَغْشَمُهُ -
 ظلم کرنا۔
 غَشَمَ رَمَضٌ غَشْمًا - الْحَاطِبُ - رات
 کو بغیر تمیز کے لکڑی کاٹنا۔
 الْغَاشِمُ وَالْغَشُومُ وَالْغَشَامُ - ظالم۔
 غاصب۔
 الْيَغْشَمُ - بڑا بہادر۔ ظالم۔ الْغَشْمُشْمُ
 بڑا بہادر۔ دلیر۔ بہت ظالم۔
 الْغَشْمَشْمَةُ وَالْغَشْمَشْمِيَّةُ -
 جرات۔
 غَشَمَ غَشْمَةً - السَّيْلُ - سیلاب کا
 آنا۔ الدَّجَلُ - حق یا باطل میں خود رائے
 ہونا۔ اپنی مرضی پر چلنا۔ اپنے اوپر
 بھروسہ کرنا۔ الہو۔ بے سوچے سمجھے
 کام کرنا۔ فَلَانًا - ظلم کرنا۔
 تَغَشَمَ - علیہ۔ غصبناک۔ وناراض ہونا۔
 فَلَانًا - زبردستی لے لینا۔
 الْغَشْمَرَةُ - مہر۔ آواز۔ جہ - غَشْمَرَةُ
 الْغَشْمَرِيَّةُ - ظلم۔
 الْغَشْمِيَّةُ - سختی، شدت۔
 غَشَا يَغْشُو غَشَوًا - فَلَانًا - کسی کے
 پاس آنا۔
 غَشِي رَمَضٌ غَشَاةً - الْدَمْرُ فَلَانًا -
 دھانکنا۔ غَشَا - الْفَرْسُ وَغَيْرُهُ -
 گھوڑے وغیرہ کا سر سے سفید ہونا۔
 غَشِي رَمَضٌ غَشِيَانًا - فَلَانًا - کسی



الشیء بلا سبب غصہ ہونا۔
 اَغْضَبَهُ وَغَاظَبَهُ مُغَاظَبَةً غصہ کرتے
 پر بھڑکانا۔
 غَاظَبَ ناراض کرنا۔ ایک دوسرے کو
 ناراض کرنا۔
 اَغْضَبَتِ السَّيِّئُ آنکھ سے تنکا وغیرہ
 نکالنا۔
 تَغَضَّبَ وَاسْتَغْضَبَ علیہ۔
 غضبناک ہونا۔
 اَلْغَضْبَةُ غضب کا اسم مرہ۔ سر کی کھال۔
 بچل کی کھال۔
 اَلْغَضَابُ وَالْغَضَابُ آنکھ کا تنکا۔
 اَلْغَضَابِيُّ بدمذہب کی بھڑکائی والے۔
 اَلْغَضْبُ وَالْغَضْبَةُ وَالْغَضْبَةُ وَالْغَضْبَةُ
 اَلْغَضْبَةُ غضبناک۔
 عَصْرَةٌ دَن (مِنْ) عَصْرًا اللہ خوشحال
 آسودہ حال کرنا۔ عَصْرَ الرَّجُلِ۔
 روکنا، منع کرنا۔ الشیء کاٹنا۔
 عَصْرَ دَس عَصْرًا وَغَصَارَةً آسودہ
 حال و مال دار ہونا۔ عمدہ زندگی والا ہونا۔
 عَصْرَ دَس (مِنْ) عَصْرًا وَتَغَصَّرَ عَنْهُ۔
 بٹنا۔ پھرنے۔ عَصْرَ عَلَیْہِ۔ مائل ہونا۔
 لِفُلَانٍ مِنْ مَالِہِ۔ اپنے مال میں سے
 کسی کو کچھ دینا۔
 اُعْظِرَ جوان مرنا۔
 اَلْعَصَارُ خالص چھنے والی مٹی۔ چکنی مٹی کا
 بنا ہوا پیالہ۔ سبز رنگ کی ٹھیکری جو نظر بد
 سے بچاؤ کے لیے رکھتے ہیں۔
 اَلْعَصَارَةُ ممر نعمت اور عمدہ زندگی۔
 فراخی و خوشحالی۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے
 سبز ٹھیکری۔ خالص مٹی۔ بڑا پیالہ۔ جہ
 اَلْعَصْرَاءُ مِنَ الرَّاحِیِ زرخیز عمدہ
 زمین۔ خالص مٹی کی زمین۔ قطاہ پرندہ
 کو بھی عَصْرَاءُ کہتے ہیں۔ جہ عَصَارِیُّ

کہتے ہیں۔ هُمُ فِي عَصْرَاءٍ مِنَ
 الْعِیْشِ۔ وہ آسودہ حالی میں ہیں۔
 اَلْعَاصِرُ فا۔ مانع عمدہ رنگی ہوئی کھال۔
 ضروریات کے لیے صبح سویرے جانے
 والا۔ مَوْنَتُ عَاصِرَةٍ۔
 اَلْعَصِيرُ نرم و نازک۔ سبز رنگ والا۔
 اَلْمُعْصِرُ صاحب نعمت و خوشحال۔ جہ۔
 مُعْصِرُونَ
 اَلْمُعْصِرُ صاحب نعمت و آسودہ حال۔
 جہ۔ مَعْصِرُونَ وَمُعَاصِرُونَ۔
 غَضَعْنَ المَاءَ کم کرنا۔ وَتَغَضَّضْنَ
 المَاءَ پانی کم ہونا۔ خشک ہونا۔
 عَضَّتْ دَس (مِنْ) عَضْفًا۔ العَوْدُ۔ لکڑی
 توڑنا۔ اَلْکَبُّ اُذْنٌ۔ کتے کا اپنے
 کانوں کو ڈھیل کرنا۔ اَلْوَسَادَةُ تکیہ
 موڑنا۔ غَضُوْفًا آسودہ حال
 ہونا۔
 غَضِفَتْ دَس (مِنْ) عَضْفًا۔ اللیل۔ رات کا
 تاریک ہونا۔ غَضِفَتْ اَلْاُذُنُ کانوں
 کا پیدائشی ڈھیل ہونا۔ صَفَتْ عَضْفًا۔
 جہ۔ غَضَفَ۔ غَضِفَ الْعِیْشُ۔
 زندگی کا خوشگوار ہونا۔ صَفَتْ
 اَغْضَفَ وَغَاضَفَ۔
 اَغْضَفَ۔ اللیل۔ تاریک ہونا۔
 السَّحَابُ۔ بادل کا ظاہر ہونا اور
 اس سے بارش کے آثار کا نمودار ہونا۔
 غَضِفَ۔ الشیء۔ لٹکانا۔
 تَغَضَّفَتْ الجَارِیَةُ۔ رطکی کا مٹک مٹک
 کرنا زوائد سے چلنا۔ اَلْحَبِیَّةُ۔
 سانپ کا کھڈی مارنا۔ تَغَضَّفَتْ
 الدُّنْیَا عَلَیْہِ۔ دنیا اس کی طرف
 رُخ کیے ہوئے ہے اور مائل ہے۔
 تَغَضَّفَ عَلَیْہِ اللیل۔ رات کا آنا۔
 اَلْبَثْرُ کنڈیں کا منہم ہونا۔
 اَلْغَضْفَتِ۔ اَلْبَثْرُ۔ کنڈیں کا گرنا۔

اَلْغَضْفَتِ اُذْنٌ۔ کان کا ٹوٹنا۔
 اَلْغَضْبَابُ۔ کھر کا تہ بہ تہ ہونا۔
 اَلْقَوْمُ فِي الْغُبَارِ۔ قوم کا غبار میں
 داخل ہونا۔
 اَلْغَاضِفُ فا۔ آسودہ زندگی والا۔ خوش
 عیش۔ وہ کتا جس کے کان کا بلند حصہ
 آگے کو جھکا ہوا ہو۔
 اَلْغَضْفُ۔ درخت خرما کے مشابہ ایک درخت
 واحد۔ غَضْفَةٌ۔
 اَلْغَضْفَةُ قطاہ کے مانند ایک پرندہ۔
 اَلْاَغْضَفُ۔ ڈھیلے کان کا کتا۔ موٹے پروں
 کا تیرتا ایک رات۔
 عَضَّتْ دَس (مِنْ) عَضْفًا۔ عَنِ كَذَا۔
 منع کرنا، روکنا۔ اَلنَّاقَةُ۔ اونٹنی کا
 کچا بچہ گرانا۔ اسم (اَلْغَضَانُ)
 اَغْضَنَ۔ السَّحَابُ۔ بادل کا لگاتار
 برسنا۔
 اَغْضَنْتُ عَلَیْہِ الْحَثِی۔ بخار کا سمٹ
 ہونا اور ہمیشہ رہنا۔ علیہ اللیل۔
 رات کا تاریک ہونا۔
 غَاضَنَ مُغَاضَنَةً۔ عَيْنُهُ۔ آنکھ کا
 جھپکنا۔ اَلْمَرْأَةُ۔ آنکھ جھپکا کر
 عورت سے بات کرنا۔
 عَضَّنَ۔ الشیء۔ موڑنا۔ شکن و سلوٹ
 ڈالنا۔ عَضَّنَتْ السَّحَابُ۔ آسمان کا
 لگاتار بارش برسانا۔ اَلنَّاقَةُ۔ اونٹنی
 کا ادھورا بچہ گرانا۔
 تَغَضَّنَ۔ مڑنا۔ سلوٹ و شکن والا ہونا۔
 اَلْعَضْنُ وَالْعَضْنُ۔ کپڑے یا کھال وغیرہ
 کی شکن و سلوٹ۔ تَغَضَّنَ۔
 اَلْعَيْنُ۔ آنکھ کی ظاہری کھال۔ جہ۔
 عَضُونُ۔ عَضُونُ اَلْاُذُنِ۔ کان
 کی سلوٹ۔ رَجُلٌ ذُو عَضُونٍ۔ پیشانی
 کے سلوٹوں والا آدمی۔ فِي عَضُونٍ
 ذُلِّکَ۔ اسی اشارہ میں۔





الْغَضَبَةُ وَالْغَضَبَةُ - باریک چھلکا جو چپک کے داغ پر ہوتا ہے۔

الْغَضِيْنُ - اونٹنی کا ادھورا گرا ہوا بچہ۔
الْأَغْصَنُ - کچی ہوئی آنکھ والا۔

عَصَا يَغْضُو عَصَوًا - اللیل - رات کا

تاریک ہونا۔ البعیر - اونٹ کا

درخت غضا چرنا۔ صفت عَاضٍ -

(رِعْضُوا) نعمت و خوشحالی میں ہونا

صفت عَاضٍ - مؤنث غَاضِيَّةٌ -

بہر۔ عَوَاضٍ -

عَضِيٌّ يَغْضِي عَضِيًّا - البعیر - درخت

غضا چرنے سے اونٹ کے پیٹ میں

درد ہونا۔ صفت (رِعْضٍ) مؤنث

عَاضِيَّةٌ - بہر۔ غَضَايَا - غَضِيَّتِي

الذروں - زمین کا زیادہ درخت غضا

والی ہونا۔

أَغْضَى أَعْضَاءَ - اللیل - رات کا

تاریک ہونا۔ صفت (رِعَاضٍ) -

أَغْضَى عَيْنُهُ - آنکھ بند کرنا۔ علی

الامریر خاموش ہونا۔ مبر کرنا۔

أَغْضَى عَنْهُ طَلْقًا - نگاہ پھیر لینا۔

أَغْضَى عَلَى الْقَدَى - مبر کر کے

معاف کر دینا۔

تَغَاضَى - آنکھیں بند کرنا۔ عنہ - غفلت

برتنا۔

الْغَضَا - جھاؤ کا درخت۔ واحد دَغَضَاتٍ

جھاڑی۔ أَهْلُ الْغَضَا - بچہ کے

رہنے والے۔

الْغَاضِيَّةُ - مؤنث الغَاضِي - تاریک روشن

(رضد) لَیْلَةٌ غَاضِيَّةٌ - تاریک رات

نَارٌ غَاضِيَّةٌ - روشن آگ۔ جہر۔

غَوَاضٍ -

الْغَضِيَاءُ - غضا درخت اُگنے کی جگہ۔

غَطَّ (ن) غَطَّ وَ غَطَّ - الشیء فی

السَّاءِ - پانی میں ڈوبنا۔ غوطہ دینا۔

غَطَّ (ن) غَطَّ - زور سے پھوڑنا۔

غَطَّ (ن) غَطَّ - النَّائِمُ - سونے

والے کا خراٹے لینا۔ البعیر - اونٹ

کا بلبلانا۔

تَغَاطَّ - الرَّجُلَانِ فِي الْمَاءِ - ایک دوسرے

کو پانی میں ڈوبنا۔

انْغَطَّ - فِي الْمَاءِ - پانی میں ڈوبنا۔

غَطَّرَسَ غَطَّرَسَةً - عَلَى فُلَانٍ - تکر

کرنا۔ الرَّجُلُ - اپنے ہم عمروں پر

دست درازی کرنا۔ بِالشَّيْءِ - خود

پسند ہونا۔ خود ستا ہونا۔ غ -

غضبناک کرنا۔

تَغَطَّرَسَ - مُتَكَبِّرَانِ جَالِ جَلَنَا - اترانا۔

غضبناک ہونا۔ بخل کرنا۔

الْغَطَّرَسُ - جہر۔ غَطَّارِسٌ - وَالْغَطَّرِيسُ

جہر۔ غَطَّارِيسٌ - تکر خود پسند۔

غَطَّرَسَ - اللَّيْلُ بَصَوَّةٍ - رات کا آنکھ

کو تاریک کر دینا۔ بَصَوَّةٍ - آنکھ کا

تاریک ہونا۔

تَغَطَّرَفَ - مُتَكَبِّرَانِ جَالِ جَلَنَا - تکر ہونا۔

الْغَطَّرَفَةُ - تکر۔

الْغَطَّرَاتُ وَالْغَطَّرِيفُ - سخی سردار

خوش طبع خوب صورت جوان۔ جہر۔

عَطَّارِفَةٌ وَ عَطَّارِيفٌ - الْغَطَّرِيفُ

باز کا بچہ، کبھی۔ الْغَطَّرُوفُ وَ

الْغَطَّرُوفُ - خوب صورت، خوش

مزاج جوان۔

غَطَّ (ن) غَطَّ - فِي الْمَاءِ - پانی

میں ڈوبنا۔ غ - فِي الْمَاءِ - پانی میں ڈوبنا۔

- فِي الْإِنَاءِ - برتن پر منہ لگا کر پینا۔

غَطَّسَهُ - فِي الْمَاءِ - پانی میں غوطہ دینا۔

تَغَاطَّسُوا فِي الْمَاءِ - ایک دوسرے کو

غوطہ دینا۔ تَغَاطَّسَ الرَّجُلُ -

غفلت برتنا۔

الْغَاطِسُ - فَا - لَیْلٌ غَاطِسٌ - تاریک

رات۔

الْغَطَّاسُ - نصاریوں کی ایک عید۔

الْغَطَّاسُ - پانی کی گہرائی میں غوطہ لگانے

والا۔ ایک پرندہ جس کو غَوَّاصٌ بھی

کہتے ہیں۔

الْغَطُّوسُ - رٹائیوں میں پیش قدمی کرنے

والا۔

الْمَغْطُوسُ - غوطہ لگانے کی جگہ۔

الْمَغْطُوسُ - غوطہ لگانے کا برتن بڑا۔ جہر۔

مَغَاطِسُ -

غَطَّشَ (ن) غَطَّشًا وَ غَطَّشَانَا -

اللیل - رات کا تاریک ہونا۔ صفت

رَغَاطِشٌ وَ أَعْطِشٌ -

غَطَّشَ (ن) غَطَّشًا وَ غَطَّشَانَا - بیماری

یا بڑھاپے کے سبب آہستہ آہستہ چلنا

غَطَّشَ (ن) غَطَّشًا - کمزور نظر والا ہونا۔

دھندلی نظر والا ہونا۔ صفت (رَغَاطِشٌ

وَ غَطَّشٌ) مؤنث غَطَّشَاءُ وَ غَطَّشَةٌ

جہر۔ غَطَّشٌ وَ غَطَّشَاتٌ -

أَعْطِشَ - اللَّیْلُ - رات کا تاریک ہونا۔

اللَّهَ الْكَبِيلُ - تاریک کرنا۔

تَغَطَّشَتْ - عَيْنُهُ - نگاہ کمزور ہونا۔

تَغَاطَّشَ - عنہ - جان بوجھ کر اندھایا

غافل بننا۔

أَغْطَاشٌ - کمزور نظر والا ہونا۔

الْغَطَّاشُ - رات کی تاریکی۔ الْغَطَّاشُ

فِي الْعَيْنِ - آنسو بہنے کے ساتھ نظر

کی کمزوری۔ فَلَاةٌ غَطَّاشَاءُ وَ

غَطَّاشٌ وَ غَطَّاشِيٌّ - بے راستہ دار

بے آب ریگستان۔

غَطَّطَتْ غَطَّطَةً - الْقَدَرُ - ہانڈی

کا زور سے جوش مارنا۔ النَوْمُ عَلَى

فُلَانٍ - نیند کا کسی پر غالب آنا۔ وَ

تَغَطَّطَ الْبَحْرُ - سمندر کا بلند

بلند موجیں اٹھانا۔ تَغَطَّطَ - الشیء -

بکھڑا۔ متفرق ہونا۔

الْعَظَايِطُ۔ بکری کے مادہ بچے۔ واحد۔ عَظُطٌ۔

الْعَظْطَةُ۔ بھٹ تیز کی آواز کی نسل کرنا عَظِطَ (رس) عَظُطًا۔ پلکوں کا دراز ہونا۔ صفت اَعْظُطُ۔ مژنت عَظْطَاءُ۔ ہر عَظُطٌ۔

الْعَظُطُ۔ مہ۔ زندگی کی آسودگی و فراخی۔ الِاعْظُطُ۔ مِنَ الْعَيْشِ۔ آسودہ زندگی۔ الْخِطْمُ۔ بڑا سمندر۔ وسیع الاخلاق آدمی۔ بڑی جماعت۔

عَظْمَطُ۔ الْمَبْحُورُ۔ سمندر کا بلند موجوں والا ہونا۔ الْقِدْرُ۔ باندی کا جوش میں آنا۔ السَّيْلُ۔ سیلاب کا نیچے گرتے وقت آواز کرنا۔

الْعَظْمَطُحُ۔ بڑا سمندر۔ عَظَا يَخْطُو عَظْوًا وَعُظْوًا۔ الشَّيْءُ۔ چیز چھپانا۔ ڈھانکنا۔ الماءُ وغیرہ۔ پانی وغیرہ کا بلند ہونا۔ اللیلُ۔ رات کی تاریکی کا ہر چیز کو ڈھانک لینا۔

عَظَى تَغْطِيَةً وَأَعْظَى اَعْطَاءً۔ الشَّيْءُ۔ چھپانا۔ ڈھانکنا۔ اَعْظَى الْكُومُ۔ انگو کی بیل میں پانی جاری ہونا اور اس کی شاخوں کا دراز ہونا۔

تَغْطَى وَاعْتَطَى۔ چھپنا۔ الْغِطَاءُ۔ پردہ۔ جہ۔ اَغْطِيَةً۔ اَلْغِطَايَةُ۔ عورت کی کُرتی، بنیان۔ عَظَى يَغْطِي غُطْيًا وَغُطْيًا۔ اللیلُ۔ رات کا تاریک ہونا۔ الشَّبَابُ۔ جوانی میں بھڑنا۔ الماءُ۔ پانی کا بہت ہونا۔ صفت رَغَايَطُ، الشَّيْءُ وَعَلَى الشَّيْءِ۔ چھپانا۔ اَعْظَى الشَّجَرُ۔ درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا۔ اَعْطَاهُ۔ چھپانا۔

الغَايَةِ مَوْثُ الغَايَةِ۔ انگو کی بیل

اِعْتَطَفَتْ وَتَغَفَّفَتْ۔ الدَّابَّةُ۔

جانور کا موسم بہار کے چارہ پر پہنچنا۔ اِعْتَمَفَ فُلَانًا۔ کسی کو کچھ خٹوڑا

سادینا۔ تَغَفَّفَتْ۔ الْإِنَاءُ اَوَالِ الصَّرْعِ۔ برتن یا ہتھ کے باقی ماندہ کو لینا۔ اَلْغَفْتُ۔ سوکھے پتے۔

الْغُفَّةُ۔ سبڑ چارہ کا ایک لقمہ۔ سبز چارہ کی کفایت۔ برتن وغیرہ کا بقیہ۔ گزادہ۔

غَفَر رَسَ غَفْرًا۔ الشَّيْءُ۔ چھپانا۔ الشَّيْبُ بِالْخِصَابِ۔ بالوں کی سفیدی کو خضاب سے چھپانا۔ غَفْرًا وَغَفِيرًا اَوْ غَفِيرَةً وَغَفْرَانًا وَغَفِيرَةً وَغَفُورًا لَكَ الذَّنْبُ گناہ چھپانا، معاف کرنا۔ الامر۔ کام کی اصلاح کرنا۔

غَفَر رَضَ وَغَفُورًا غَفْرًا وَغَفِيرًا۔ الْمَرِيضُ۔ بیمار کا دوبارہ مریض ہونا۔ غَفْرًا وَغَفِيرًا۔ الْجَوْحُ۔ زخم کا دوبارہ کھل جانا۔ غَفِيرًا الثَّوْبُ۔ کپڑے کا روئیں دار ہونا۔

غَفَرُ۔ الشَّيْءُ۔ ڈھانکنا۔ چھپانا۔ الرَّجُلُ۔ کسی کو غَفَرَ اللهُ لَہُ کُنْہَا۔ اَغْفَرُہ۔ چھپانا۔ اَغْفَرُ الرِّمْتُ۔ گوند نکالنا۔

تَغْفَرُ۔ درخت سے گوند نکالنا۔ حاصل کرنا۔ تَغَا فَرُوا۔ ایک دوسرے کی مغفرت کی دعا کرنا۔

اِعْتَفَرَ اللهُ ذَنْبَهُ۔ گناہ بخشنا۔ اِعْغَفَارُ۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے کا روئیں دار ہونا۔ اِسْتَغْفَرَ۔ اللهُ الذَّنْبَ مِنْ الذَّنْبِ گناہ کی بخشش مانگنا۔

الْغَفْرُ وَالْغَفَرُ۔ کپڑے کا ڈوال۔ الْغَفْرُ۔

چھوٹی چھوٹی گھاس۔

الْغَفْرُ وَالْغَفَرُ وَالْغَفَارُ۔ گردن کے چھوٹے چھوٹے بال۔

الْغَفْرُ وَالْغَفَرُ۔ پہاڑی بکری کا بچہ۔ جہ غَفْرَةٌ اَوْ غَفَارٌ وَغَفُورٌ۔ الْخِفْرُ۔ گائے کا بچہ۔ کہتے ہیں رَجُلٌ غَفُورٌ الْقَفَا وَهِيَ غَفْرَةُ الْقَفَا۔

الْغَفْرُ۔ گردن کے چھوٹے چھوٹے بالوں والا۔ الْغَفَارُ۔ رخصت پر نشان۔ الْغَفْرَةُ۔ ڈھلنا۔ الْغَفَارَةُ۔ ایک قسم کا خود جو سپاہی کلاہ کے نیچے پہنا کرتا ہے۔ عورت کے بال چھپانے کی اور صنی ٹکڑا جس سے کمان کے گوشہ کو لپیٹتے ہیں۔ ہر وہ شے جس سے کسی چیز کو چھپائیں۔

الْغَفَارَةُ۔ وسیع چادر یا جُبرجہ جس کو اجار یہود اور پادری پہنتے ہیں۔ الْغَاوِرُ۔ فَا۔ جہ۔ غَاوِرُونَ وَغَفْرَةٌ۔ الْغَفُورُ۔ بہت بخشنے والا مذکر، مؤنث۔ الْغَفَارُ۔ مؤنث غَفَارَةٌ۔ بہت بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے سنی میں سے ہے۔

الْغَفِيرُ۔ مہ۔ رواں کہتے ہیں۔ جَاوُوا جَمًّا غَفِيرًا وَجَمًّا الْغَفِيرُ وَ الْجَمُّ الْغَفِيرُ۔ یعنی وہ سب شریف و رؤیل آئے۔

الْغَفِيرَةُ۔ مہ۔ اصلاح کا ذریعہ، کثرت زیادتی۔ اَلْيَغْفَرُ وَالْمَغْفَرَةُ۔ خود۔ جہ۔ مَغَاوِرُ۔ اَلْيَغْفَرُ وَالْمَغْفَرُ وَالْمَغْفُورُ۔ ایک درخت کا گوند۔ جہ۔ مَغَاوِرُ وَ مَغَاوِرُ۔

الْغَفَشُ۔ آنکھ کا کیمچڑ۔ غَاوَصَ غَفَاوًا وَمَغَاوَصَةً۔ اچانک





آپکڑنا۔

الْغَافِصَةُ: بلانے ناگمانی۔ اچانک آنے والی مصیبت۔ جہ۔ غَوَافِصُ۔

عَقْفَةُ رَضٍ: غَفَقًا۔ بالسَّوْطِ۔ چابک سے بہت مارنا۔

عَقَقْتُ: علیہ کسی پر اچانک آجانا۔

الرَّجُلُ: اچانک واپس آجانا۔

عَقْفَةُ: محتواری سی نیند لینا۔

عَقَقْتُ: اُوکھنا۔

تَعَقَّقُ: الشَّرَابُ: تمام دن شراب پینا یا گھڑی گھڑی شراب پینا۔

لَا تُعَقِّقُ: بہ۔ احاطہ کرنا۔

الْعَقْفُ: مصر۔ ملکی بارش۔

الْمُخَفِّقُ: مرجع۔ واپسی کی جگہ۔

الْمُنْعَقُ: واپس ہونے اور مڑنے کی جگہ۔

عَقَلَ رَضٍ: عَقُولًا وَعَقْلًا وَعَقْلًا۔

عَنْهُ: غافل ہونا۔ بھولنا۔ چھوڑنا۔

الشيءُ: چھپانا۔

عَقَلَهُ: غافل بنانا یا غافل سمجھنا۔ تَحَقَّلَ

الشيءُ: چھپانا۔

أَعْقَلَ: الشيءُ: چھوٹا بنانا۔

نام رکھنا یا غافل شمار کرنا۔ الذَّنَبُ

نقطة نہ لگانا۔ کام کے دنت کو

پوچھنا اور فراغت کا انتظار نہ کرنا۔

غَافَلَهُ وَتَغَفَّلَهُ وَارْتَعَفَلَهُ وَاسْتَغَفَّلَهُ

غفلت کے وقت کا انتظار کرنا۔

لَا تُغَفِّلُهُ: غافل جاننا۔

تَغَافَلَ: غافل بنکھٹ بننا۔ غافل ہونے کا

بہانہ کرنا۔ غفلت کے وقت کا انتظار

کرنا۔ تَغَافَلَ عَنِ الْأَمْرِ: بھولنا۔

الْعَقْلُ: مصر۔ فراخی زندگی۔ هُوَ فِي

عَقْلٍ مِنْ عَيْشِهِ۔

الْعَقْلُ: بے علامت، بے حسب آدمی۔

مِنْ الشَّيْءِ: جس کا قائل معلوم نہ ہو۔

مِنْ الْأَرْضِ: غیر آباد زمین۔ مِنْ

الرَّجُلِ: وہ شخص جس سے نہ کسی بھلائی

کی امید ہو اور نہ اس کے شر کا خطرہ۔

مِنْ الْكُتُبِ: جس کا مصنف نہ

معلوم ہو۔ مِنْ الشَّعْرَاءِ: بھول

شاعر۔ جہ۔ أَعْقَالُ:

الْغَافِلُ: فا۔ جہ۔ غَافِلُونَ وَعُقُولٌ وَ

عُقُلٌ۔

الْعُقُلُونَ: غافل۔ الْعُقُلُونَ: غافل۔

غفلت و لاپرواہی۔

الْمُخَفِّلَةُ: لب زیریں کے بال۔

الْمُخَفِّلُ: مفع۔ بے خردمی۔ سادہ لوح۔

غَفَا يَعْفُو غَفْوًا وَغَفْوًا وَغَفِي

يَعْنِي غَفِيَةً وَاعْفَى: اوکھنا۔

ملک نیند لینا۔ غَفَا الشيءُ: چیز کا پانی

پر تیرنا۔ الْعَفْوَةُ: اونگھ۔ نیند کی

بھینکی۔

غَفَى يَعْنِي غَفِيًا وَاعْفَى: الطَّعَامُ:

غله کو صاف کرنا۔ اعْفَى الطَّعَامُ:

غله میں بہت کڑا کرکٹ ہونا۔ اعْفَى

الرَّجُلُ: آدمی کا کھلیان میں بھوسہ

پر سوجانا۔

الشيءُ: لوثنا۔ العَفَى: گھسوں کا

پھٹکنا۔

الْعَفَاؤُنْكَ: اور چھوٹے گھسوں جو گھسوں میں

سے ہوتے ہوتے ہیں۔

الشيءُ: وہ بلند بڑے جس پر پانی نہ چڑھ

سکے۔

الْغَفَاةُ: آنکھ کی سفیدی۔

عَقَى رَضٍ: غَفَقًا وَغَفِيَقًا: القَارُ: قار

کا جوش کھانا اور آواز نکالنا۔ الصَّغَرُ

شکرہ کا آواز نکالنا۔ عَقَى الْمَاءُ وَ

غَفِيَقُهُ: کشادگی سے تنگی میں آنے پر

پانی کی آواز۔

عَمَلُهُ رَضٍ: غَلَا: فِي الشَّيْءِ: داخل کرنا۔

عَمَلُ الْمَفَادَةِ: رگیستان میں داخل ہونا۔

الشيءُ: چیز کو چوری سے سامان میں

رکھ لینا۔ الْمَاءُ بَيْنَ الْأَشْجَارِ:

پانی کا درختوں کے درمیان جاری ہونا۔

بَصْرُهُ: نگاہ کا راہ راست سے

بھٹک جانا۔ غُلُولًا: خیانت کرنا۔

فِي الشَّيْءِ: داخل ہونا۔ فِي الْبِلَادِ:

ملک میں گھسے ہوئے دوزخک چلا جانا۔

عَمَلُ رَضٍ: غَلَا وَعَمَلٌ: الْغَلَاةُ: غلالہ

پھینا۔ غَلَا وَغَلَاةُ: ہتھکڑی یا

طوق ڈالنا۔

عَمَلُ رَضٍ: غَلَا وَغَلِيْلًا: صَدْرُهُ: کینہ

سے سینے کا پڑ ہونا۔

عَمَلُ غَلَا وَغَلَاةُ: سخت پیاسا ہونا۔ صَفَتُ

(غَلِيْلٌ وَمَعْلُولٌ مُعْتَلٌ)

أَعَمَلُ: الرَّجُلُ: خیانت کرنا۔ أَعَمَلْتُ

الارضَ: زمین کا غلہ پیدا کرنا۔ غلہ والی

ہونا۔ أَعَمَلُ الْبَصَرِ: تیز نظر کرنا۔

أَعَمَلُهُ: خیانت کی طرف منسوب کرنا۔

عَمَلِي عَيَالِيهِ: بال بچوں کے لیے غلہ لاتا

۔ الْخَطِيْبُ: خطیب و واعظ کا اپنے

کلام میں حق جو نب نہ ہونا۔ الْجَارُزُ:

فِي الْجَدِيدِ: قصاب کا کھال کھینچنے دنت

کچھ گوشت اور چربی کو کھال میں لگا

چھوڑنا۔

أَعَمَلُ وَتَغَلَّلَ: فِي الشَّيْءِ: داخل ہونا۔

أَعَمَلُ: الرُّضِيْعَةُ: جائداد کا غلہ لینا۔

الْثَوْبُ: کپڑے کا اور کپڑوں کے نیچے

پھیننا۔

أَعَمَلُ وَتَغَلَّلَ: بِالْغَالِيَةِ: خوشبو

لگانا۔

أَسْتَعَلَّ: الارضَ: زمین سے غلہ لینا۔

عَمِلَ: غلام کو غلہ لانے پر مجبور کرنا۔

الْعَمَلُ: کینہ، کھوٹ۔

الْعَمَلُ: پیاس، ہتھکڑی۔ طوق۔ جہ۔

أَغْلَالٌ وَغُلُولٌ۔

الْغَلَّةُ: گھر کے کرایہ کی آمد یا زمین کا حاصل۔
جہ۔ غَلَّاتٌ وَغَلَّالٌ.

الْغُلَّةُ: سخت پیاس۔ کپڑوں کے نیچے
پینے کا کپڑا۔ وہ چیز جس میں کوئی چھپ
جائے۔ کوزے کے سر پر باندھنے کا کپڑا
جہ۔ غُلِّلٌ۔

الْغُلِّلُ: پیاس۔ درختوں کے درمیان
بہنے والی پانی۔ چھپتی۔ وہ گوشت جو
کھان اترتے وقت کھال پر رہ جائے۔
جہ۔ اَغْلَالٌ۔

الْغِلَالَةُ: بشوکہ جو کپڑوں یا زرہ کے نیچے
پہنتے ہیں۔ زرہ کے دو حلقوں کو کہتے
والی میخ۔

الْغِلِيلُ: سخت پیاسا۔ سخت پیاس۔ کینہ۔
محبت یا غم کی گرمی۔

الْغُلَيْكَةُ: مؤنث الغلیل۔ زرہ یا زرہ کے
نیچے پینے کا کپڑا۔ جہ۔ غَلَّائِلٌ۔

الْمُغْلَالُ: بہت غلبہ والا۔
الْمُغْتَلُّ: پیاسا۔ اَنَا مُغْتَلٌّ اَيَّہ۔ میں
اس کا مشتاق ہوں۔

الْمُغْلَاتُ وَالْمُسْتَغْلَاتُ: زمین کا نفع
کرایہ کی شکل کی یا غلہ کی صورت میں۔

غَلَبَ الرَّجُلُ وَغَلَبَ عَلَيْهِ رُضٌ غَلْبًا وَ
غَلْبًا وَغَلْبَةً وَغَلْبًا وَغَلْبَةً وَ
غُلْبِي وَغُلْبِي وَغُلْبَةً وَغُلْبِيَّةً
فَاغْتَلَبَهُ غَالِبٌ اَنَا۔

غَلِبَ (س) غَلْبًا۔ موٹی گردن والا ہونا۔
صفت رَاغَلِبٌ، مؤنث غَلْبَاءُ۔ جہ
غَلِبٌ۔

غَلْبَهُ غَالِبٌ کرنا۔ غَالِبَهُ غَلْبًا وَ
مُغَالِبَةً غلبہ پانے کے لیے مقابلہ
کرنا۔ غَالِبٌ ہونا۔

تَغَلَّبَ - عَلَيَّ الْبَلَدُ۔ شہر پر بزرگ قابو
پالینا۔
تَغَالَبُوا - عَلَيَّ بَلَدٌ۔ شہر پر قابض ہونے

کے لیے ایک دوسرے پر غالب آنے کی
کوشش کرنا۔

رَاغُلُوْلَبٌ - الْكُشْبُ۔ گھاس کا گھنا ہونا
- الْقَوْمُ۔ قوم کا کثیر ہونا۔

اِسْتَغْلَبَ - عَلَيْهِ الْيَضْحَكُ۔ ہنسی
کا غالب آجانا۔

الْغَلَّابُ: بہت غلبہ پانے والا۔ جہ۔
غَلَّابُونَ۔

الْغَالِبُ: فا۔ جہ۔ غَالِبُونَ وَغَلْبَةٌ
غالب آنے والا۔

الْاَغْلَبُ: اسم تفضیل۔ زیادہ طاقتور،
اکثر۔

الْغُلْبَاءُ: مؤنث الِغْلَابِ۔ گھٹے درختوں
کا باغیچہ۔ بڑا اونچا ٹیلہ۔ بڑا قبیلہ۔

الْغُلْبَةُ: مصر۔ مِنْ الرِّجَالِ۔ بہت
جلد غالب آنے والا۔

الْمُغْلَبُ: مفعول۔ غالب ظاہر کیا ہوا۔ بار بار
مغلوب کیا ہوا۔

الْمُغْلَبَةُ: مصر۔ غلبہ، فتح، فتح کی جگہ۔
غَلَّتْ (س) غَلَّتْ۔ الْبَيْعُ أَوِ الشِّرَاءُ۔

خرید۔ فروخت و فسخ کرنا۔
غَلَّتْ (س) غَلَّتْ۔ حساب میں غلطی کرنا۔

تَغَلَّتْ وَتَغَلَّتْ۔ اچانک آکھڑنا۔
الْغَلَّتَةُ: رات کا پہلا حصہ۔ الْغَلَّتَةُ
حسابی غلطی۔

غَلَّتْ (س) غَلَّتْ۔ الْقَوْمُ۔ سختی سے
مقابلہ کرنا۔ (وَلَا غَلَّتْ) الزَّيْدُ۔

چھتاق کا آگ نہ دینا۔
غَلَّتْ (س) غَلَّتْ۔ الشَّيْءُ بِالْشَّيْءِ۔ ملانا۔

الْغَلْتُ: مصر۔ کوڑا کرکٹ جو غلہ میں ملا
ہوا ہو۔

الْغُلْثُ: مجبور (وَالْمُغَالِثُ) سخت
لڑاکا۔
الْغُلْثُ وَالْغُلْثُ وَالْمُغْلُوثُ۔ مِنْ
الْبُيُوتِ۔ کوڑا کرکٹ ملا ہوا گیہوں۔

تَغَلَّبَ رُضٌ غَلْبًا وَغَلْبًا۔ الْفَرَسُ۔
گھوڑے کا برابر رفتار پر چلنا۔

تَغَلَّبَ جہ۔ عَلَيْهِ ظَلَمٌ کرنا۔ الْغُلْبُ۔ جوانی
کا عمدہ حصہ۔

الْاُغْلُوْبُ جہ۔ نِزْمٌ وَنَاظِرٌ طَنِي جہ۔ اَغَالِيْبُ جہ۔
غُلْسٌ۔ فِي الْعَقْلِ۔ آخر شب کی تاریکی

میں کام کرنا۔ الْمَاءُ۔ آخر رات کی
تاریکی میں پانی پر پہنچنا۔ (وَأَغْلَسَ)

آخر شب کی تاریکی میں چلنا۔
الْغُلْسُ۔ آخر شب کی تاریکی۔ جہ۔

اَغْلَسَ۔
غَلَصَهُ (س) غَلَصًا وَغَلَصَةً غَلَصَةً
حلق کاٹنا۔ حلق پکڑنا۔

الْغَلَصَةُ: مصر۔ نرا ورا گردن کے درمیان
کا گوشت۔ جماعت۔ قوم۔ سرداران

قوم۔ جہ۔ غَلَا صُومُ۔ "هُوَ فِي"
غَلَصَمَةٍ مِنْ قَوْمِهِ۔ وہ اپنی قوم

میں معزز شخص ہے۔
غَلَطَ (س) غَلَطًا۔ فِي الْأَمْرِ۔ غلطی کرنا۔

صفت غَالِطٌ۔ صفت مَفْعُولٌ (مَغْلُوطٌ)
قبیلہ۔

غَلَطَهُ۔ غلطی کی نسبت کرنا۔
غَالَطَهُ فَلَاطًا وَمُغَالَطَةً وَأَغْلَطَهُ۔

غلطی میں ڈالنا۔
تَغَالَطَ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کو غلطی

میں ڈالنا۔
الْمُغْلَطَةُ جہ۔ مَغَالِطٌ۔ وَالْاُغْلُوطَةُ جہ۔

اُغْلُوطَاتٌ وَأَغَالِيطٌ وَالْاُغْلُوطَةُ
وہ ہم مسئلہ بیانات جس سے آدمی کو

غلطی میں ڈالا جائے۔ وہ چیز جس میں
غلطی کی جائے یا کثرت سے جس میں

غلطی واقع ہو۔ مَسْئَلَةٌ غُلُوطٌ۔
بہت پیچیدہ مسئلہ۔

الْمُغْلَاظُ۔ غلطی کرنے کا عادی۔
غَلَّظَ (س) (وَالْمُغْلَاظُ) غَلَّظًا وَ





غَلَطَ وَغَلَطَهُ وَغَلَطَةً وَ
غِلَاطَةً. موٹا ہونا، گاڑھا ہونا، سخت
ہونا۔ مَفَت (عَلِيظًا) ج۔ غِلَاطٌ
وَ غَارِظٌ ج۔ غَلَطَةٌ۔ غَلَطْتُ
السُّبُلَةَ۔ بالی میں دانہ پڑنا۔ الرجلُ
سخت و تند خو ہونا۔
غَلَطَهُ۔ موٹا یا گاڑھا یا کھوڑا یا مشکل بنا
قسم کو مضبوط کرنا۔ عَلَيْهِ فِي الْيَمِينِ
قسم میں سختی کرنا۔
أَغْلَظَ۔ الْمُسَافِرُ مَسَافِرَ السَّحْتِ زِينِ
پراترنا۔ الشَّيْءُ۔ چیز کو گاڑھا پانا۔
لَهُ فِي الْقَوْلِ۔ کسی سے سخت
کلامی کرنا۔
غَارَظَهُ مُعَاظَةً۔ دشمنی کرنا، مقابلہ کرنا۔
اسْتَغْلَظَ۔ موٹا ہونا، موٹا پانا، سخت ہونا۔
الغِلَاطُ۔ ناہموار سخت زمین۔ الغِلَاطَةُ
موٹائی، ناہمواری، کھوڑاپن۔ سخت
کلامی۔ شَدَتْ۔ بَيَّتَهُمْ غِلَاطَةً
ان کے درمیان عداوت ہے۔
غَلَّغَلَ غَلَّغَةً وَتَغَلَّلَ۔ جیسے
جلدی کرنا۔ غَلَّغَلَ وَتَغَلَّلَ۔ فی
الشَّيْءِ۔ سختی سے داخل ہونا۔ رِسَالَةً
مُغَلَّغَةً۔ ایک شہر سے دوسرے شہر
پہنچایا ہوا پیغام۔
الغُلَّغُلُ۔ درخت کی گہری جڑ۔ ج۔
غَلَاغُلٌ۔
غَلَفَ دَن، غَلَفًا۔ الشَّيْءُ۔ ڈھانکنا۔
غلاف میں ڈالنا۔
غَلَفَ دَس، غَلَفًا۔ ختنہ شدہ نہ ہونا۔
غَلَفَ۔ الشَّيْءُ۔ غلاف میں ڈالنا۔ ڈھانکنا
پھپھانا۔
أَغْلَفَ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کے لیے غلاف بنانا۔
غلاف میں ڈالنا۔
تَغَلَّفَ وَغَتَّلَفَ۔ غلاف میں ہونا۔

تَغَلَّفَ الرَّجُلُ۔ داڑھی میں غالیہ
نوشہ لگانا۔
الْغُلْفُ۔ ایک درخت جس سے چمڑا
رنگتے ہیں۔
الْغُلْفَةُ۔ وہ کھال جس کو ختنہ کرنے والا
کاٹتا ہے۔ ج۔ غُلْفٌ۔
الْغُلْفَتَانِ۔ مونچھوں کی دونوں طرفیں۔
الْأَغْلَفُ۔ ختنہ نہ کیا ہوا۔ قَلْبٌ أَغْلَفٌ
وہ دل جو نہ سمجھے نہ یاد رکھے۔ عام
أَغْلَفُ۔ سرسبزی و اذانی کا سال۔
الْغِلَافُ۔ غلاف۔ نیام۔ لفافہ، کیس۔ ج
غُلْفٌ وَغُلْفٌ وَغُلْفٌ۔
الْغِلْفَاءُ۔ مؤنث الِأَغْلَفُ۔ ج۔ غُلْفٌ۔
ارضٌ غُلْفَاءُ۔ نہ چری ہوئی زمین۔
سَنَةٌ غُلْفَاءُ۔ اِزْنَانِ کا سال۔
غَلِقَ دَس، غَلَقًا۔ تنگ دل ہونا۔
غَضَبْنَاكَ ہونا۔ بدخلق ہونا۔ صفت
(غَلِقْتُ) الْهَيْئَتِ فِي يَدِ الْمُدَّحِّجِينَ۔
سین کا مرتبہ کی ملک میں آنا۔
أَغْلَقَ وَغَلَقَ۔ الباب۔ دروازہ
بند کرنا۔
أَغْلَقَ۔ عَلَيْهِ الْأَمْرُ۔ معاملہ اس پر
مہم رہا۔ أَغْلَقَ الْقَاتِلُ فِي يَدِ الْوَالِي
قاتل کا حاکم کے حوالہ ہونا۔ اسم
د الْغَلَقِ
أَغْلَقَهُ۔ عَلَى كَذَا۔ مجبور کرنا۔
غَالَقَهُ مَعَاكِفَهُ۔ شرط لگانا۔
تَغَالَقَ۔ الْقَوْمُ۔ باہم شرط لگانا۔
إِنْغَلَقَ۔ الباب۔ دروازہ بند ہونا۔ کھلنا
مشکل ہونا۔
اسْتَغْلَقَ۔ الباب۔ دروازہ کا کھلنا
دشوار ہونا۔ الْكَلَامُ عَلَى فَلَانٍ۔
گفتگو کا بند ہو جانا۔
الْغَلَقُ۔ قفل تالا۔ بڑا دروازہ۔ معاروں
کی اصطلاح میں وہ پتھر جو محراب یا

قُبَّة کے بیچ میں لگایا جاتا ہے۔ ج۔
أَغْلَاقٌ۔ وَجْهٌ أَغْلَاقٌ۔ کلام
غَلِقَ وَمُغْلَقٌ۔ مشکل اور دشوار فہم
کلام۔ بابُ غُلْقٍ۔ بند کیا ہوا دروازہ۔
الْيَسْلَقُ۔ جوئے کے تیروں میں سے ایک
فائدہ بخش تیر۔ ج۔ مَغَالِقُ۔
عِلْمٌ دَس، غَلْمًا وَغَلْمَةً وَاعْتَلَمَ
شہوت پرست ہونا۔ صفت د غِلْمٌ
وَرِغْلِيْمٌ دُمُغْلِيْمٌ مؤنث غِلْمَةٌ
دَغِلِيْمٌ دَغِلِيْمَةٌ وَمُغْتَلِمَةٌ۔
إِعْتَلَمَ الشَّرَابُ۔ شراب کا جوش
مارنا۔ إِعْتَلَمَتِ الْأَمْوَالُ۔ موقوفوں
کا زور سے اٹھنا۔
الْغَلَامُ۔ نوجوان، غلام، مزدور۔ ج۔
غَلْمَانٌ وَغَلْمَةٌ وَاعْلِمَةٌ۔
الْغَلَامَةُ۔ مؤنث غَلَامٌ۔ باندی، لونڈی۔
الْغُلُومَةُ وَالْغُلَامِيَّةُ وَالْغُلُومِيَّةُ۔
نوجوان کی حالت۔ جوانی۔ الْغَيْلَمُ
ترکچھو۔ بینڈک۔ کنویں میں پانی کا سوت
بست بالوں والا نوجوان۔ مَا فِي الدَّارِ
غَيْلَمٌ۔ گھر میں کوئی نہیں۔
عَلَنَ دَس، غَلَنًا۔ الْقَبَابُ۔ جوان کا
پرجوش ہونا۔ غُلُوانُ الشَّبَابِ۔
آغاز شباب اور نشاط جوانی۔
غَلَا يَغْلُو غُلُوءًا۔ زیادہ ہونا۔ بلند ہونا۔
النَّبْتُ۔ پودے کا گنجان اور بڑا ہونا
۔ بِالْدَّيْنِ۔ دین میں جوشیلا اور
مضبوط ہونا۔
غَلَا غَلَاءً۔ السَّعْرُ۔ زرخ کا منسکا یا
سستا ہونا۔ بھاؤ بڑھ جانا۔ صفت
(غَالٌ وَغَلِيٌّ)
غَلَا يَغْلُو غُلُوءًا وَغُلُوءًا۔ السَّهْمُ وَ
بِالسَّهْمِ۔ تیر کو انتہائی دور تک
پھینکنا۔ فِي الْأَمْرِ۔ مبالغہ کرنا۔ حد
سے بڑھنا۔ بِالْشَّيْءِ۔ قیمت چڑھنا۔

منگی قیمت پر خریدنا۔ غَالِي الرَّجُلُ۔
 خرابی میں کسی آدمی کا مقابلہ کرنا۔
 أَعْلَى۔ الشَّيْءُ۔ منگاپانا۔ منگاک خریدنا۔
 السَّعْرُ۔ بھاؤ کو گرا کرنا۔ الْكُومُ
 انگوڑی بیل کے پتے اتارنا۔
 أَعْلَى وَكَغَالِي وَاعْلُوِي۔ الشَّجَرُ۔
 درخت کا گنجان اور بڑا ہونا۔
 اِعْتَلَى۔ البعيرُ۔ اونٹ کا جلدی چلنا۔
 اسْتَعْلَى۔ الشَّيْءُ۔ منگاپانا۔
 الغَالِي۔ فَا۔ ج۔ عَلَاةٌ مُزَنَةٌ غَالِيَةً۔
 ج۔ خَالِيَاتٌ وَعَوَالٍ۔ الغَالِي
 چربی دار گوشت۔ بَعْتَهُ بِالْغَالِي
 دیا بھائی۔ میں نے اس کو منگاک
 فروخت کیا۔
 الغَلَاؤُ مِم۔ منگائی۔ ایک قسم کی چھوٹی
 مچھلی۔ ج۔ اَعْلِيَّةٌ۔
 الغُلَاؤُ۔ والغُلَاؤُ۔ حد سے گذرنا۔ د
 الغُلَاؤُ، الجَوَانُ، جَوَانٍ كَأَفَاوِشٍ وَنَشَاطٍ۔
 الغُلَاؤُ۔ تیر مارنے کا انتہائی فاصلہ۔ ج
 غُلَاوَاتٌ وَغُلَاؤُ۔
 الِغْلَى وَالِغْلَاةُ۔ تیر جو بہت دور فاصلے
 پر مارا جائے۔ ج۔ مَغَالٍ۔
 عَلَى يَغْلِي غَلِيًّا وَغَلِيًّا تَا۔ جوش مارنا۔
 عَلَى تَغْلِيَّةٍ وَأَعْلَى اِغْلَاؤُ۔ الْقِدْسُ۔
 ہانڈی کو ابلانا اور جوش دینا۔
 الرَّجُلُ۔ دور سے اشارہ سے سلام
 کرنا۔
 تَغْلَى۔ غوث بولگانا۔ الغَالِيَّةُ۔ ایک مرکب
 خوشبو ہے جو مشک عنبر اور کافور سے
 بنتی ہے۔ ج۔ غَوَالٍ۔
 غَمَّةٌ (دُن) غَمًّا۔ ڈھانکنا۔ غمگین کرنا۔
 غَمُّ الْيَوْمِ۔ دن کا بہت گرم ہونا۔
 الْقَمَرُ الْمُجُومُ۔ چاند کا ستاروں
 کی روشنی کو ماند کر دینا۔ الشَّيْءُ الشَّيْءُ۔
 غالب ہونا۔

غُمَّ۔ عَلَيْهِ الْأَمْرُ۔ معاملہ کا مخفی ہونا۔
 پوشیدہ و مبہم ہونا۔
 غَمَّ دَسْ غَمًّا۔ لمبے بالوں والا ہونا۔
 صَفْتُ دَاغَمَّ مَوْتٌ غَمًّا۔
 ج۔ غَمُّ۔
 آغَمَّ۔ غمگین کرنا۔ آغَمَّ الْيَوْمُ۔ دن
 کا سخت گرمی والا ہونا۔ آغَمَّتْ
 السَّمَاءُ۔ آسمان کا بادل والا ہونا۔
 مَا آغَمَّتْ لِي وَعَلَى وَإِلَى۔ کس
 چیز نے تم کو میرے لیے غمگین بنایا۔
 غَامَّةٌ مُعَامَةً۔ ایک دوسرے کو
 غمگین کرنا۔
 تَغَامٌ۔ غم کا اظہار کرنا۔
 اِنْعَمَّ۔ ڈھک جاناد۔ وَاغْتَمَّ غَمِّينَ
 ہونا۔ اِغْتَمَّ النَّبَاتُ۔ نباتات
 کا لمبا ہونا اور بہت ہونا۔ اَغْتَمَّ
 الرَّجُلُ۔ پوشیدہ ہونا۔
 الْغَامُ۔ گرم دن۔ غم کا دن۔
 الْغَمُّ۔ ج۔ غُمُومٌ۔ وَالْغَمَّةُ۔ ج۔
 غَمَمٌ۔ غم۔ بے پینی۔ ج۔ غُمُومٌ۔
 يَوْمٌ غَمٌّ۔ گرم دن۔ هُوَ فِي غَمَّةٍ
 وہ حیرت میں ہے۔ كَيْلَةُ غَمٍّ وَغَمَّةٌ۔
 گرم یا غم کی رات۔
 الرَّغَمُ۔ مِنَ السَّحَابِ۔ گرا ہوا بادل
 گھٹا ٹوپ بادل۔
 الْغَثَى۔ شدت تاریکی۔ غبار۔
 الْكَمَامُ۔ بادل۔ غَمَامَةٌ۔ بادل کا ٹکڑا
 ج۔ غَمَامٌ رَحْمٌ۔
 الْغَمَامُ۔ زکام۔ الْغَمَامَةُ۔ منہ پر کا
 پھینکا۔ کبھی اس بندھن کو بھی غمامہ
 کہتے ہیں جو گھوڑے کی دو آنکھوں پر
 اس غرض سے باندھا جاتا ہے کہ وہ
 صرف سامنے دیکھ سکے، نہ دائیں بائیں
 الْغَمَامُ۔ الْغَثَى۔ غم۔ اندوہ۔ بے چینی۔
 گھبراہٹ۔ مصیبت۔

الْغَيْمُ۔ گرم کر کے گاڑھا کیا ہوا دودھ۔
 الْغُمُومُ۔ ج۔ غَمُّ۔ چھوٹے مخفی ستارے
 اَرْضٌ مُخَمَّةٌ۔ بہت نباتات
 والی زمین۔
 غَمَّتْ (مِنْ) غَمًّا۔ الطَّعَامُ۔ کھانے
 کا دل پر ثقیل ہونا اور انسان کو
 مدبوش کر دینا۔ دُ فِي الْمَاءِ۔ پانی
 میں غوطہ دینا۔ الشَّيْءُ۔ ڈھانکنا۔
 غَمَّتْ دَسْ غَمًّا۔ کھانے کا دل پر
 ثقیل ہو کر انسان کو مدبوش کر دینا۔
 غَمَجَ (مِنْ) غَمَجًا وَغَمَجَ دَسْ،
 غَمَجًا۔ الْمَاءُ۔ گھونٹ گھونٹ کر کے
 برابر پانی پیتا۔
 الْغَمَجَةُ وَالْغَمَجَةُ۔ گھونٹ۔ ج۔ غَمَجٌ
 غَمَدٌ (مِنْ) غَمَدًا۔ السِّيفُ۔ تلوار
 کو میان میں کرنا۔ الشَّيْءُ بَهِيمًا۔
 اِذْمَرُ۔ اصلاح کرنا۔
 غَمَدَتُ دَسْ غَمَدًا۔ کنویں کے پانی کا
 نیاہہ یا کم ہونا دھند۔ غَمَدُ الْكَيْلُ۔
 رات کا تاریک ہونا۔
 اَغَمَدَ۔ السِّيفُ۔ تلوار کو میان میں کرنا
 ۔ الْأَشْيَاءُ۔ ایک دوسرے میں
 داخل کرنا۔
 غَمَدَ دَسْ وَتَغَمَدَ دَسْ۔ قصور چھپانا۔
 تَغَمَدَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ۔ اپنی رحمت
 میں چھپالینا۔ رحمت کے سایہ میں رکھنا
 تَغَمَدَ الْإِنَاءُ۔ برتن بھرنے۔
 اِغْتَمَدَ۔ اللَّيْلُ۔ رات میں داخل ہونا۔
 الْغَمَدُ۔ تلوار کا میان۔ کیس۔ غلاف۔
 ج۔ غَمُودٌ وَغَمَادٌ۔ سَفِينَةٌ
 غَامِدٌ وَغَامِدَةٌ۔ بھری ہوئی کشتی
 ج۔ غَوَامِدٌ۔ بَمَوْ غَامِدٌ وَ
 غَامِدَةٌ۔ کنویں کے پانی کا مٹی سے
 ڈھکا ہوا ہونا۔
 غَمَرَ (دُن) غَمْرًا۔ الْمَاءُ۔ پانی کا ڈھانکنا۔



غَمَر دس، غَمَرَاو غَمَرَا - صَدْرُکِ
عَلَى - کینہ سے بھر جانا۔ غَمَرْتُ يَدَهُ
ہاتھ میں گوشت کی چربی کا لگ جانا۔
غَمَرْدَن، غَمَارَةٌ وَغَمُورَةٌ - المَاءُ
پانی زیادہ ہونا۔ الرَّجُلُ - آدمی کا
جابل ہونا۔
غَمَرٌ - عَلِيهِ - بے ہوشی طاری ہونا۔ غَمَرٌ
وَجْهَهُ - چہرے پر زعفران ملنا۔
بِالشَّيْءِ - چیز کو پھینک دینا۔
أَغْمَرَهُ - الْحَرُّ - گرمی کا کم ہو کر سفر پر
جرات دلانا۔
غَامِرَةٌ مُغَامَرَةٌ - سخت لڑائی لڑنا اور
موت کی پروا نہ کرنا۔
أَغْمَرُوهُ وَتَغْمَرُ - چہرے پر زعفران ملنا۔
أَغْمَرُوا لُغْمَرُ - پانی میں ڈوبنا۔ أَغْمَرُوا
الْمَاءُ الشَّيْءَ - پانی کا کسی شے کو
ڈبو دینا۔
الْغَمْرُ - مَص - بہت پانی، سمندر کا بڑا حصہ
پورا کپڑا۔ شریف، وسیع الاخلاق۔
جہ - غَمَارٌ وَغَمُورٌ - لیلِ غَمَرٌ
بہت تاریک رات۔ غَمَرُ النَّاسِ
لوگوں کی جماعت۔ غَمَرُ الرِّدَاءِ
فیاض و سخی اور صاحب الخیر۔
الْغَمْرُ وَالْغَمْرُ وَالْغَمْرُ - نا تجربہ کار
جابل۔ جہ - أَعْمَارٌ۔
الْغَمْرُ - کینہ۔ پیاس۔ الْغَمْرُ - زعفران۔
درس سے بنائی ہوئی ایک چیز جو منہ پر
لگاتے ہیں۔
الْغَمْرُ - مَص - نا تجربہ کار۔ جابل۔ کینہ،
گوشت کی چکناسی۔ غَمَرُ النَّاسِ
لوگوں کی جماعت۔
الْغَمْرُ - جھوٹا پیالہ۔ جہ - غَمَارٌ وَغَمَارٌ۔
الْغَمْرُ - بہت چربی دار۔ غَمْرَةُ الشَّيْءِ -
سختی۔ جہ - غَمَرَاتٌ وَغَمَارٌ وَ
غَمَرٌ - غَمَرَاتُ الْمَوْتِ - موت کی

تکالیف و سختیاں۔
الْغَمْرَةُ - زعفران۔ الْغَمَارَةُ - جمالت و
ناواقفیت۔ د۔ وَالْغَمَارُ وَالْغَمَارُ
وَالْغَمَارَةُ - لوگوں کی جماعت۔
انہو۔
الْغَامِرُ - فَا - اجاڑ زمین۔ المَاءُ الْغَامِرُ -
بہت پانی۔
الْغَمِيرُ - بہت پانی۔
الْمُغْمَرُ - مدہوش۔
الْمُغْمُورُ - مغم - گنہگار۔ غیر مشہور مقہور۔
غَمَرْدَن، غَمَزَا - ہاتھ سے ٹٹولنا۔
الْفَنَاءَةُ - نیزہ کو آزمائے کے لیے
دانتوں سے چبانا۔ فَا بِالْعَيْنِ آو
الْجَفِينِ وَالْحَاجِبِ - آنکھ یا ابرو
وغیرہ سے اشارہ کرنا۔ غَمَزَ بِالرَّجْلِ
وَعَلِيهِ - طعنہ دینا اور برائی کی کوشش
کرنا۔ غَمَزَ عَيْنَهُ وَدَاؤُهُ - ظاہر
ہونا۔ غَمَزَةُ الدَّابَّةِ - جانور کا لنگڑا
ہونا۔ غَامَزَةٌ مُغَامَزَةٌ - عیب
لگانا۔
أَغْمَرٌ - فِيهِ - عیب لگانا۔ شَانِ كُفَّانَا -
گفتیہاں جمع کرنا۔
لَقَامَزَ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کی طرف
آنکھوں سے اشارہ کرنا۔
أَغْمَزَهُ - طعنہ دینا۔ الْكَلِمَةُ - کلمہ کو
کمزور سمجھنا۔
الْغَمْرُ - نیکے مویشی۔ کمزور آدمی۔ جہ -
غَمَزٌ وَغَمَارٌ۔
الْغَامِزُ - فَا - نیزے کی آزمائش کرنے
والا۔
الْغَمَارُ اسم مبالغہ مؤنث غَمَارَةٌ -
الْغَمِيرُ - نمایاں عیب۔
الْمُغْمَرُ - عیب، طعن یا طع کی جگہ۔ جہ
مُغَامِزٌ۔
الْغَمِيرَةُ - کمزوری عقل یا عمل۔ بُرَائِي

نقص، الْمُغْمُورُ - مغم۔
غَمَسَ رَض، غَمَسَا - الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ -
پانی میں ڈوبنا۔ غوطہ دینا۔ الْبَسَانُ
فِي صَدْرِهِ - بھلے کو سینہ میں داخل
کرنا۔ غَمُوسًا، النَّجْمُ - ستارہ
کا ڈوبنا۔
غَمَسَهُ - زور سے ڈوبنا۔ غَمَسَ الشَّرْبُ
کم پینا۔ الْاِبِلُ - اونٹ کو پانی پلا کر
واپس لے جانا۔
غَامَسَ مُغَامَسَةً - اپنی جان کو لڑائی یا
خطرہ میں ڈالنا۔ فَلَانًا - ایک دوسرے
کو پانی میں غوطہ دینا۔ فِي الْأَمْرِ -
جلدی کرنا۔
لُغْمَسَ وَغَمَسَ - فِي الْمَاءِ - پانی
میں غوطہ لگانا۔ فِي الشَّيْءِ - داخل ہونا۔
الْغَمُوسُ - مصیبت میں ڈالنے والا معاملہ
- مِنَ الرِّجَالِ - سخت۔ بہادر۔
طَعْنَةُ غَمُوسٍ - پارہ بھانے والی
نیزہ کی ضرب۔ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ
جھوٹی قسم جو ارادہ کھائی جائے۔ جہ
غَمَسٌ۔
الْغَمِيسُ - تاریکی۔ لَبْلُ غَمِيسٍ - تاریک
رات۔ (وَالْغَمِيسَةُ) جھاڑی۔
درختوں کا جھنڈ۔
الْغَمَاسَةُ - مرغابی۔ پند کی۔ جہ - غَمَاسٌ۔
غَمَشَ دَس، غَمَشَا - اشک بہنے کے
ساتھ چندھا ہونا۔ صَفَتُ (أَعْمَشُ)
غَمَصَهُ رَض، غَمَصَهُ دَس، غَمَصَا -
حقیر جاننا۔ غَمَصَ النِّعْمَةَ - نعمت
کی ناشکری کرنا۔ عَلِيهِ - جھوٹا ڈوبنا۔
عَلِيهِ كَلَامُهُ - عیب لگانا۔ غَمَصَ
دَس، غَمَصَا - آنکھ کا کچھڑ والی ہونا۔
غَمَصَتْ عَيْنُهُ - آنکھ کا کچھڑ ہانا۔
صَفَتُ (أَعْمَصُ) - آنکھ - غَمَصَا
جہ - غَمَصٌ۔

اغْصَصَ - حقیر جانا۔ گھٹیا سمجھنا۔

الْغَصَصُ - مصر۔ آنکھ کا کیچڑ۔

الْغَمُوصُ - جھوٹا۔ بے یقینی غموض۔ جھوٹی

قسم۔ رجلٌ مَغْمُوصٌ علیہ - دین

یا حسب میں عیب لگا یا ہوا آدمی۔

عَمَصَ رَن - و غَمَصَ رَن - غَمُوصًا -

الکلامُ - کلام کا دقیق و پیچیدہ ہونا۔

عَمَصَ رَن (ض) - غَمَصًا - السَّيْفُ فِي

الْخِجَرِ - تلوار کا گوشت میں گھسنا۔

چھیننا۔ الرجلُ فِي الْأَرْضِ - ملک

میں پھرنا۔ عَنهُ فِي الْبَيْعِ - خرید و فروخت

فروخت میں نرمی و رعایت برتنا۔

عَمِصَ رَس - غَمُوصَةً وَ غَمَاصَةً -

المكانُ - جگہ کا پست ہونا۔

عَمَصَ وَأَعَمَصَ - عَيْنُهُ - آنکھ بند

کرنا۔ عَنهُ فِي الْبَيْعِ - خرید و فروخت

میں رعایت و نرمی برتنا۔ عَمِصَ

الکلامُ - کلام کو مبہم کرنا۔ غَمِصَ

عَنِ الْإِسَاءَةِ - چشم پوشی کرنا۔

أَعَمَصَ - الْعَيْنُ فَلَانًا - آنکھ کا

کسی کو چھٹان سے دیکھنا۔ أَعَمَصَ

غِنَ الشَّيْءُ - تجاؤ کرنا۔ چشم پوشی کرنا۔

أَعَمَصَ عَلَى كَذَا - برداشت کرنا۔

أَعَمَصَ فِي السِّلْحَةِ - سامان کے

گھٹیا ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت

گھٹانا۔ حَدَّ السَّيْفِ - تلوار کی دھار

کو باریک کرنا۔ فَلَانًا - دوڑ میں کسی

سے آگے نکل جانا۔

إِغْمَصَ - طَوَّقَهُ - آنکھ بند ہونا۔

إِغْمَصَ - الْبَرْقُ - بجلی کا چمکنا بند ہونا۔

- الرجلُ عَنِ الْإِسَاءَةِ - چشم

پوشی کرنا۔ مَا لَإِغْمَصْتُ عَيْنَايَ -

میری آنکھ نہیں لگی۔

الْغَمِصُ - مصر۔ پست زمین۔ غَمُوصٌ

وَأَعْمَاصُ - فَلَانٌ ذُو غَمِصٍ -

فلاں گنام و ذیل ہے۔

الْغُصْنُ وَالْغِمَاصُ وَالْغِمَاصُ وَ

الْغَمِصُ - آنکھ کی جھپکی نیند۔ مَا

اِكْتَحَلْتُ عَيْنِي غَمَضًا أَوْ غِمَاصًا

أَوْ اِغْمَاصًا أَوْ تَغْمِصًا أَوْ

تَغْمِصًا - میری آنکھ نہیں لگی۔

الْغَامِصُ - فا۔ پست زمین۔ جہ۔ غَوَامِصُ

گنام۔ ذیل۔ اِمْرًا مَدِيًّا - مبہم

معاملہ۔ الْخُلُخَالُ الْغَامِصُ -

پازیب جو پنڈلی کو بھروسے۔ الْغَامِصُ

مِنَ الْكُؤُوبِ وَالْمَشْوَقِ - موٹا ٹخنہ

یا موٹی پنڈلی۔ غَوَامِصُ الْاَبِلِ -

چھوٹے اونٹ۔

لِغَامِصَةٍ - مَوْتُ الْغَامِصِ - جہ۔

غَامِصَاتٌ وَ غَوَامِصُ - الدَّارُ

الْغَامِصَةُ - گھر جو راستوں سے

کنارہ پر ہو۔

الْغَمِصَةُ - عِيبٌ - الْغَمُوصَةُ - عِيبٌ

الْمَغْمِصُ - پست زمین۔ جہ۔ مَغَامِصُ -

الْمَغْمِصَاتُ - گناہ جو جان بوجھ کر کیے

جائیں۔ مَغْمِصَاتُ اللَّيْلِ - رات کی

تاریکیاں۔

عَمَطَهُ رَضًى وَ غَمَطَهُ رَسًى - غَمَطًا -

حقیر جانا۔ خفارت کرنا۔ غَمَطَ

الْبِعْثَةَ - نعمت کی ناشکری کرنا۔

الْحَقُّ - حق کا انکار کرنا۔ الْمَاءُ

زور سے پانی کا گھونٹ بھرنا۔ الذَّبِيعَةُ

ذبح کرنا۔

أَعْمَطَ - عَلَيْهِ الشَّيْءُ - ہمیشہ ہونا۔

دائم ہونا۔

غَامَطَ مَغَامَطَةً - فِي الشَّرْبِ - لگاتار

گھونٹ لینا۔

تَغَمَطَ - عَلَيْهِ التُّرَابُ - مٹی سے ڈھانکنا

یہاں تک کہ مار ڈالنا۔

إِغْمَطَهُ - دَوَّرَ فِي دَارِهِ - کے بعد آگے

بڑھ جانا۔ ذُو الْكَلَامِ - غالب ہونا۔

إِغْمَطَ الشَّيْءُ - نکل جانا اور پھر کوئی

نشان نہ ملنا۔

الْغَطُ - مصر۔ پست زمین۔

غَمَغَمَ غَمَغَمَةً - الشُّدُ - بیل کا خوف

کے وقت ڈکارنا۔ الْاَبْطَالُ - بہادروں

کا لڑائی میں آوازیں نہکانا۔ الْكَلَامُ -

غیر واضح کلام کہنا۔ الصَّبِيُّ - بچہ کا

دودھ کے لیے پستانوں پر رونا۔

تَغَمَغَمَ - الرَّجُلُ - واضح کلام نہ کہنا۔

ڈوبے ہوئے کا پانی کے نیچے گرا کر گرانا۔

الْغَمَغَمَةُ - مصر۔ خوف کے وقت بیلوں

کی، یا لڑائی کے وقت بہادروں کا شور۔

غیر واضح کلام۔ جہ۔ غَمَاحُ -

غَمِصَ رَن - وَ غَمِصَ رَس - وَ غَمِصَ رَن -

غَمَقًا - الْمَكَانُ - نزو نمناک ہونا۔

- النَّبَاتُ - نباتات کا نمناکی سے

خراب ہونا۔ صَفَتُ (غَمِصَ) مَوْتٌ

غَمِصَةٌ -

غَمِصَ - الْبَعِيرُ - اونٹ کا غمق کی بیماری

میں مبتلا ہونا۔

الْغَمِصَةُ - بچہ میں لگنے والی بیماری۔

الْمَغْمُوقُ - غمق کی بیماری میں مبتلا۔

عَمَلَ رَن - عَمَلًا - الشَّيْءُ - چھپانا۔

فَلَانًا - پسینہ لینے کے لیے ڈھانکنا۔

الْبُسْرُ - گدہ بچہ کی پال دہانا۔ الْعَجَبُ

فِي الزَّيْدِيَّةِ - انور کو زبیل میں

تہ بہ تہ رکھنا۔ الشَّيْءُ - درست کرنا

(ر) - وَ تَعَمَّلَ النَّبَاتُ - ایک دوسرے

پر چڑھنا۔ الشَّيْءُ - وسیع ہونا۔

عَمِلَ رَس - عَمَلًا - تہ بہ تہ ہونے کی وجہ

سے بد بودار ہونا۔ الْجَوْحُ - پٹی کی

وجہ سے زخم کا خراب ہونا۔ صَفَتُ

(دَعَمِلَ)

أَعْمَلَ - الْإِهَابُ - کچے چمڑے کا چھوڑ



غ

دینے سے شراب ہونا
الْغَمَلُ - الِادِيمُ - چڑے کا خراب ہونا
صفت غَمِيلٌ

الْغَمِيلُ - پیچیدہ اگی ہوئی نصی گھاس۔
پست زمین۔ ج۔ غَمْلِي۔

الْمَغْمُولُ - مفع۔ گنام۔

الْغَمْلَجُ وَالْغَمْلَجُ وَالْغَمْلَجُ وَالْغَمْلَجُ
الْغَمْلُوجُ وَالْغَمْلُوجُ - غیر مستقل

مزاج آدمی مُونٹ غَمْلَجُ وَغَمْلَجُ
وَعَمْلُوجَةٌ وَغَمْلُوجَةٌ

الْغَمْلُوجُ وَالْغَمْلُوجُ - موٹا۔ لمبا۔

الْغَمْلُوجُ - سایہ میں اگی ہوئی شاخ۔

ج۔ غَمْلُوجِي۔

عَمَنَ (ن) غَمْنًا - الشَّيْءُ - چھپانا۔

البُسْرُ - گدگدھڑکی پال دبانہ۔ فلاٹا
کسی پر کڑے ڈال کر پسینہ لانا۔

عُمِنَ وَالْعَمَنَ - فی الارض - دفن کیا جانا

یا ہونا۔ زمین میں غائب ہونا۔

عَمَّا يَغْمُوا غَمًّا - البيت - گھر کو مٹی

سے اور کڑی سے پاٹنا۔

الْغَمَا - مکان کی چھت یا چھت کی مٹی وغیرہ

تشبیہ غَمَوَان - ج۔ اَغْبِيَّةٌ و

اَغْمَاءُ

عَلَى (ن) غَمِيًّا وَغَمِيًّا - الْبَيْتُ - یعنی

غَمًّا يَغْمُوا

غَمِيًّا وَاعْمِيًّا - اليوم - دن بھر ابر

چھایا رہنا۔

غَمِيًّا وَاعْمِيًّا - عَلَى الْمَرِيضِ - بیمار

پر بے ہوشی طاری ہونا۔ صفت مُعَمِيٌّ

وَمُعَمِيٌّ عَلَيْهِ -

النَّحْيُ - وہ چیز جس سے پسینہ لانے کے

لیے ٹھوڑے کو ڈھانپا جائے۔ رَجُلٌ

نَحْيٌ غَمِيٌّ وَالْأَدَمِيٌّ - رَجَالٌ غَمِيٌّ

وَأَعْمَاءُ - غشی والے آدمی - و

الْغَمَاءُ - گھر کی چھت - ج۔ اَغْمَاءُ و

اَغْبِيَّةٌ -

عَمَنَ (ن) غَمًّا - التَّحُلُ - کھجور کا پکنا۔

درخت خرما کا پکی کھجور لانا۔ الوَادِي

وَادِي میں درخت زیادہ اگنا۔ ر۔ غَمًّا

وَعَمَلٌ - گنگنا۔

عَمَنَ - الرُّوصُ - باغ کو سرسبز اور ہرا

بھر کرنا۔

أَعَمَّنَ - الشَّجَرُ - درخت کا پکنا۔

الْوَادِي - وادی کا زیادہ درخت والی

ہونا۔ الرُّوصُ - باغ کو سرسبز اور

ہرا بھر کرنا۔ الدُّبَابُ - کبھی کا

بھنبھننا۔ الرَّجُلُ - نرم آواز نکالنا۔

الْغَنَانُ - کبھی کی بھنبھنا ہٹ۔ اَلْعَمَلُ

گنگنا ہٹ۔

الْأَعْمُنُ - گنگنا نے والا۔ بہت درختوں

اور گھاس والی وادی۔ مُونٹ غَمَاءُ

الْقَرْيَةُ الْغَمَاءُ - آباد گاؤں۔

عَمِنْتُ (ن) غَمًّا - الرَّجُلُ - سانس

لے لے کر پینا۔ غَمَشْتُ نَفْسُهُ -

جی متلانا۔

تَغَمَّشْتُ - الشَّيْءُ - بوجھل ہونا۔ بیماری ہونا

چمٹنا۔

غَمَجَ (ن) غَمَجًا وَتَغَمَجَ - ناز و خجہ

کرنا۔ صفت رَغَبِيٌّ وَغَمَجًا مُونٹ

غَمَجَةٌ وَغَمَجًا

الْغَمَجُ وَالْغَمَجُ وَالْغَمَجُ - ناز و خجہ۔

الْغَمَجُ - کاجل جس کو عورتیں غل گوندنے کے

لیے استعمال کرتی ہیں۔

الْأَعْمُوجَةُ - ناز و خجہ کرنے کی چیز۔ ج۔

أَعْمُوجِيٌّ

الْعَمْدُ وَالْعَمْدُ - مِنَ الْعَمَلَانِ -

موٹا تازہ لڑکا۔

عَمَصَ (ن) عَمَصًا - تنگ سینہ والا ہونا۔

عَمَّطَ (ن) عَمَّطًا - قریب بہ ہلاکت ہونا۔

- الامْرُ فَلَانًا - مشکل ہونا۔ عَمَّطَهُ

وَأَعَمَّطَهُ - غصہ سے بھر دینا۔

غَاظَطَهُ - سختی کرنا۔ ایک دوسرے کو مشقت

میں ڈالنا۔

الْعَمَّطُ وَالْعَمَّطُ وَالْعَمَّطُ وَالْعَمَّطُ

لازمی رنج و غم۔

الْمَعْمُوطُ - مفع۔ غمگین۔

غَمِمَ (ن) غَمًّا - الشَّيْءُ - مفت پانا۔

ر۔ غَمًّا وَغَمًّا وَغَمًّا وَغَمًّا وَغَمِيمَةً

وَعَمَامًا - غنیمت حاصل کرنا۔

غَمَمَهُ - حصہ سے زائد دینا۔

أَغَمَمَهُ - الشَّيْءُ - غنیمت بنانا۔

تَغَمَّمَ وَرَغَمَّمَ وَاسْتَغَمَّمَ - الشَّيْءُ -

غنیمت سمجھنا۔ تَغَمَّمَ فَلَانٌ - بکریاں

حاصل کرنا۔

الْغَنِيمَةُ - ج۔ غَنَائِمُ - وَالْغَنَمُ - ج۔

غَنُومٌ وَالْغَنِيمُ - غنیمت جو جنگ

میں حاصل کی جائے۔ کماؤ۔ غَنِيمَةُ

بَارِدَةٌ - غنیمت جو بغیر مشقت کے

ملے۔

الْغَنَمُ - مہ۔ بکریاں - واحد (شَاةٌ) - ج۔

أَغْنَامٌ وَغَنُومٌ وَأَغَانِمٌ - غَنَمٌ

مُغَمَّمَةٌ وَمُغَمَّمَةٌ - بہت تعداد

والا۔ بکریوں کا ریوڑ۔

الْغَنَامُ - چروانا۔ بہت بکریوں والا۔ بہت

مال غنیمت حاصل کرنے والا۔

الْمَغْنَمُ - غنیمت - ج۔ مَغَانِمُ -

عَنَّا مَا أَنْ تَفْعَلَ كَذَا - بھاری

کوشش کی انتہا یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔

الْغَنُوءُ - غنی - بے نیازی۔

غَنِيَّ (ن) غِنًى - الرَّجُلُ - نکاح کرنا۔

غَنِيَّتُ الْمَرْأَةِ - عورت کا خوبصورت

ہونے کا وجہ سے بناؤ سے بے نیاز

ہونا۔ رَغْنِيَّ (مَعْنَى) بِالْمَكَانِ -

کسی جگہ ٹھہرنا۔ صفت (رَغَانِ) -

فَلَانٌ - زندہ رہنا۔ ر۔ غِنًى عَنَّا و

وَعْنِيَانَا، مالدار ہونا۔ بالشی عَن
غیرہ کفایت کرنا۔ بس کرنا۔
عَنِّي تَعْنِيَةً، آواز کرنا۔ الشَّعْرُ
بالشعر، گناہ و شر پر ہونا۔ بالمرآة
عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔
— الشَّاعِرُ بِقَلْبِهِ، مدح کرنا۔ ہجو

کرتا۔
عَنِّي وَأَعْنِي، مالدار بنانا۔
أَعْنِي إِعْنَاءً، الرجل، مالدار کرنا۔
عندہ کافی ہونا۔ أَعْنِي عَنْهُ عَنَاءً
فُلَانٍ وَمَعْنَاكَ وَمَعْنَاكَ وَمَعْنَاكَ
وَمَعْنَاكَ، قائم مقام ہونا۔ أَعْنِي
عندہ دور کرنا۔ هَذَا أَمَّا يُعْنِي
عَنْكَ شَيْئًا، یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں

دے گا۔
تَعْنِي تَعْنِيًا، مالدار ہونا۔ تَعْنِيَتْ
المرآة، عورت کا نکاح نہ کرنا۔
تَعْنِي، ایک دوسرے سے غنی ہونا۔
لَا تُسْتَعْنِي بِي نِزَارًا، عندہ بدمکتفا
کرنا۔ اللَّهُ، خدا تعالیٰ سے دعا کرنا
کہ وہ غنی کر دے۔

الْغَنَى وَالْغِنَى وَالْغِنَى وَالْغِنَى
کفایت، دولت مندی۔ مَالَهُ عِنْدَهُ
غَنَى وَغْنِيَةً وَغْنِيَانَا، اس کے
بغیر اس کو چارہ نہیں۔

الْغِنَى وَالْغِنَى، کفایت، دولت، کتے
پس تو غنی عندہ ضروری ہے، اس
سے چارہ نہیں۔

الْغِنَاءُ مِنَ الصَّوْتِ، گیت، سر،
راگ۔

الْغِنِيَّةُ وَالْغِنِيَّةُ وَالْغِنِيَّةُ وَ
الْغِنِيَّةُ، گیت، سر، راگ۔ جہ
آغَانِي وَأَغَانٍ۔

الْغِنَى، دولت مند، مالدار۔ مکتفی۔ جہ
أَغْنِيَاؤُ

الْغَانِي، فَا، غنی۔
الْغَانِيَّةُ، مَوْنَتُ غَانِي، حسن و جمال کی وجہ
سے زینت و آرائش سے بے نیاز۔
عورت، شادی شدہ عورت۔ جہ
غَانِيَاتٌ وَغَوَانٍ۔
الْمَغْنَى، منزل، رہنے کی جگہ۔ جہ مَغَانٍ
مَالَهُ عِنْدَهُ مَغْنَى، وہ اس سے بے
پرواہ نہیں ہو سکتا۔

غَرِبَ دَسْ، غَرِبًا وَأَغْرَبَ، عندہ
غافل ہونا۔ جھوٹا۔

أَغْرَبَ، اندھیرے میں چلنا۔ غَرِبًا،
بلا ارادہ و بلا قصد کوئی کام کرنا۔

الْغَيْبُ، تاریکی، بہت سیاہ گھوڑا۔
بہت تاریک رات۔ کندہ بن۔ غافل۔

کمزور۔ جہ۔ غِيَابٌ،
الْغَيْبَانُ، تاریکی پیٹ۔

الْغَيْبَةُ، مَوْنَتُ غَيْبٍ، رطال کا
شیر۔

غَانَهُ يَغْوُهُ غَوًى وَأَغَانَهُ رَغَاةً
وَمَوْثَةً، مدد کرنا۔

غَوًى، الرجل، مدد کے لیے چلانا۔
اِسْتَعَاثَ، الرجل، مدد چاہنا۔

الْغَوْتُ وَالْغَوَاتُ وَالْغَوَاتُ، مدد۔
الْغَوْتُ وَالْغَوَاتُ وَالْغَوَاتُ، خوراک

وغیرہ کی مدد۔
الْمَغَاوُثُ، پانی۔

عَاجِرٌ يَغْوُجُ غَوًى وَتَغْوِيَةً،
الْغَوُصُ، شاخ کا بڑھنا۔ دوہرا

ہونا۔ تَغْوِيَةً، الرجل، فہ
مَشِيَم، چال میں لپکنا۔

عَارَ يَغْوُرُ غَوًى، پستی کی طرف آنا۔
الماء، پانی کا زمین میں جذب ہونا

صفت دغائِرُ، المنهارة، دن کا
سخت گرم ہونا۔ الرجل، دوپہر میں
سونا۔ الشیء، أو القوم، طلب کرنا۔

تلاش کرنا۔
أَغَارَتْ تَغْوُرُ غَوًى وَغَوًى، عَيْنُهُ
آنکھ کا دھنس جانا۔ دَغْوًى وَغَوًى
وَعْيَارًا، فِي الْأَمْرِ، کسی معاملہ میں
گہری نظر سے دیکھنا۔ رَفَى الشَّيْءَ،

داخل ہونا۔
غَارَتْ عْيَارًا وَغَوًى، السَّمْسُ،
سورج کا ڈوبنا۔

غَوًى، پستی کی طرف آنا۔ الماء، پانی کا
زمین میں جذب ہونا۔ الرجل، دوپہر

میں چلنا، اترنا یا سونا۔ القوم،
شکست دینا۔

غَوَرَتِ السَّمْسُ أَوِ النُّجُومُ، ڈوبنا۔
غروب ہونا۔

غَوًى، المنهارة، سورج کا ڈھل جانا۔
أَغَارَ إِغَارَةً، چلنے میں تیزی کرنا۔ پستی

کی طرف آنا۔ ملک میں سفر کرنا۔
الْجَبَلُ، رسی مضبوط ہونا۔

أَغَارَ إِغَارَةً وَغَارَةً وَمَغَارًا،
عَلَيْهِمْ، لوٹ ڈالنا۔ الغرس

گھوڑے کا تیر دوڑنا۔ يَجْمَعُ وَالْيَمِيمُ،
مدد دینے کے لیے آپہنچنا۔

عَاوَرَ مَغَارَةً، العدو، دشمن پر
لوٹ ڈالنا۔ القوم، ایک دوسرے

پر لوٹ ڈالنا۔
تَغَوَّرَ، پستی کی طرف آنا۔ ظاهراً

الْعَيْنَ، دھنستا۔
تَغَاوَرَ، القوم، بعض کا بعض پر لوٹ

ڈالنا۔
اِغْتَارَ اِغْتِيَارًا، نفع اندوز ہونا۔ غلہ

حاصل کرنا۔
اِسْتَعَارَ، عَلَيْهِمْ، لوٹ ڈالنا۔ الرجل،

بہت زمین میں اترنے کا امداد کرنا۔
موٹا ہونا۔ البحر، زخم کا سوجنا
اِسْتَعْوَرَ اِسْتِعْوَارًا، غلہ مانگنا۔

غ

الْغَارُ كَهْوَه - غار - جہ - اَعْوَارٌ وَغَيْرُهَا
ایک قسم کا درخت - واحد (غَارَةٌ)
غبار - بڑا شکر - انکور کے پتے -
غیرت - چارہ - زرخندان - خانہ چشم
کی بڈیاں - اوپر نیچے کے تالو -

الْغَارَةُ - مصر - غارت گری - لوٹ - جہ
غَارَاتٌ - تیز غارت ڈالنے کے لیے
گھوڑے - جَبَلٌ شَدِيدُ الْغَارَةِ -
مضبوط بٹی ہوئی رسی - شَقُّ الْغَارَةِ
کھلیں - غارت گری کے لیے گھوڑوں
کو ہر طرف سے چڑھانا -

الْغَوْرُ - مہم - پست زمین، زمین میں جذب
ہونے والا پانی - گرہا - غار - کہتے ہیں
"فَلَانٌ يَغِيرُ الْغَوْرَ" فلاں گہری
نظر کا آدمی ہے - عَرَفْتُ غَوْرَ
المَسْأَلَةِ - مسئلہ کی حقیقت کو میں
پہچان گیا -

الْغَائِرَةُ - مونث غائِرٌ - دوپہر - دوپہر
کا سونا -

الْغَوْرَةُ - سورج - قیلوتہ -

الْغَوْرُ - خون بہا -

الْغَوْدَى - گرائی -

الْمَغَارُ وَالْمَغَارُ وَالْمَغَارَةُ وَالْمَغَارَةُ

غار - لوٹ - جہ - مَغَاوِرٌ وَمَغَارَاتٌ

- الْمَغَارُ - لوٹ کی جگہ -

الْمَغَاوِرُ وَالْمَغَاوِرُ - مِنَ الرِّجَالِ -

بہت لوٹ ڈالنے والے - فَرَسٌ

مَغَاوِرٌ - تیز گھوڑا -

عَاذَكَ يَغُوْرُكَ عَوْرًا - قصد کرنا -

الغَارُ - پڑول - گیس (دخیل) - جہ -

غَارَاتٌ -

غَاصٌ يَغُوْصُ غَوْصًا وَغِيَاصًا وَ

غِيَاصَةً وَمَغَاصًا - فِي الْمَاءِ -

پانی میں غوطہ لگانا - صفت (غَائِصٌ)

جہ - غَوَاصٌ وَغَاصَةٌ - غَاصٌ

عَلَى الشَّيْءِ - اچانک آجانا - عَلَى
الْمَعَانِي - معانی کی تہ کو پہنچنا -
غَوَّصَهُ - فِي الْمَاءِ - پانی میں غوطہ دینا -
الْغَوَّاصُ - بہت غوطہ لگانے والا - موتی
وغیرہ نکلنے کے لیے سمندر میں غوطہ
لگانے والا -

الْغِيَاصَةُ - غوطہ زنی کا پیشہ -
الْغَوَّاصُ - ایک قسم کا پرندہ
الْغَوَّاصَةُ - آبدوز کشتی - سب میرین کشتی
الْمَغَاصُ - مہم - غوطہ لگانے کی جگہ - پڑلی
کا اوپر کا حصہ - جہ - مَغَاوِصُ -

غَاطٌ يَغُوْطُ غَوْطًا - الْحُقُوفَةُ - گرہا
کھودنا - فیلو - داخل ہونا - ریت میں
پاؤں گھس جانا - فِي الْمَاءِ - پانی میں
غوطہ لگانا -

غَوَّطَ - اِسْمٌ - کنویں کو گہرا کھودنا -
الطَّعَامُ - کھانے کے بڑے بڑے
بقعے نکلنا -

تَغَوَّطَ - پانخانہ کرنا - تَغَاوِطًا فِي الْمَاءِ -

ایک دوسرے کو غوطہ دینا -

الْغَاطُ - الْعَوْدُ - لکڑی کا مڑنا -

الْغَائِطُ - فَا - پانخانہ - قَضَائُ حَاجَتِكَ

جگہ - پست زمین -

الْعَوْطُ وَالْغَاطُ وَالْعَوْطَةُ - پست

زمین - جہ - غُوْطٌ وَغَوَّاطٌ وَ

غِيَاطٌ وَغِيَّاطٌ - الْغَاطُ -

جماعت -

الْعَوْطَةُ - شام میں ایک جگہ کا نام - جہاں

پانی اور درختوں کی بڑی کثرت ہے -

اس کو عَوْطَةُ دَمِشَقٌ بھی کہتے ہیں -

بِتَرَعَوِيَّةٍ - گہرا کنواں -

الغَاغُ - پودینہ - واحد (غَاغَةٌ)

الغَاغَةُ - بہت سے مختلف لوگ -

الْعَوْنَاءُ - وہ بڑی جس کے پر نکل آئے

ہوں - یا اڑنے کے لیے تیار ہو - بہت

سے مختلف لوگ - کہنے لوگ، مثری
لوگ

عَالَهُ يَغُوْلُهُ غَوْلًا وَغَتَالَهُ - ہلاک

کرنا - اچانک پکڑ لینا - شراب میں کسی

کا مدہوش ہونا -

تَغَاوَلَ مُعَاوَلَةً - جلدی چلنا - تَغَاوَلَ

ایک دوسرے سے سبقت کرنا -

تَغَوَّلَ - معاملہ کا اہتر ہونا - مختلف رنگ یا

شکل اختیار کرنا - گونا گوں ہونا - دگرگوں

ہونا - ریگستان میں بے راہ ہونا -

چھلاوہ کا کسی کو بے راہ کر دینا -

الْعَوْلُ - مہم - در دوسرے مدہوشی - ریگستان

کی دوری - مشقت - پست زمین -

بہت مٹی -

الْعَوْلُ - مصیبت، ہلاکت - جہ - اَعْوَالٌ

وَعِيَالٌ - چھلاوہ - غول بیا بانی - جہ

اَعْوَالٌ - سانپ - ہر وہ چیز جس سے

عقل زائل ہو - گونا گوں شکلیں اختیار

کرنے والا جن اور جاہد گر - موت -

الْغَيْلَةُ - پوشیدہ قتل -

الْغَائِلَةُ - مصیبت - ہلاکت، فساد، اثر

جہ - غَوَائِلٌ -

الْأَعْوَالُ - مِنَ الْعَيْشِ - آسودہ زندگی

الْمَغْوَلُ - ہلاک کرنے کا آلہ - لمبی پیکان -

لاٹھی جس کے اندر تیلی سی تلوار ہوتی

ہے - گہنی -

الْمَغَالَةُ - ہلاکت، نقصان -

غَوَى يَغْوِي غِيًّا وَغَوَى يَغْوِي -

غَوَايَةُ - گمراہ ہونا - ناکام و محروم

ہونا - ہلاک ہونا - وَغَوَى وَغَوَى

الْبَجَلُ - گمراہ کرنا -

غَوَى يَغْوِي وَغَوَى يَغْوِي غَوَى -

الْفَصِيلُ - اونٹ کے بچہ کو بد معنی

ہونا اور لاغری سے قریب بہ ہلاکت ہونا

صفت (غَوَمٌ)

تَغَاوَى - بتکلفت گمراہ و جاہل بننا۔
 اسْتَعْوَى - الرجل - گمراہ کرنا۔ کہتے ہیں
 "بِتُّ عَوًى وَ عَوًى وَ عَوًى وَ عَوًى" و
 مَعْوًى - میں نے رات اکیلے گذاری۔
 الْغَيْۃُ وَالْغَيْۃُ - گمراہی۔ لَئِنَّهُ فَكُلُّ
 غَيْۃٍ - وہ حرام زادہ ہے۔ وَلَهُ
 الزنا ہے۔
 الْعَاوَى - فا۔ ج۔ غَاوَدَنْ وَ عَوَاةٌ
 رَأْسُ غَاوٍ - چھوٹا سر۔ وَالْعَوَى
 وَالْعَوَى وَالْعَيَانُ، گمراہ، خواہش
 پرست۔
 الْعَاوِيۃُ - مَوْنَتُ غَاوٍ - پانی سے بھری
 مشک۔
 الرُّغْوِيۃُ - مصیبت، ہلاکت۔ دزدوں کے
 شکار کے لیے گڑھا۔ ج۔ آغَاوَى -
 الْمَعْوَاةُ - ج۔ مَعَاوٍ وَالْمَعْوَاةُ - ج۔
 مَعْوِيَاتُ - گمراہی کی جگہ۔
 غَابَ يَعِيبُ عَيْبًا وَ غَيْبَةً وَ غَيْبًا وَ
 غَيْبًا وَ مَغِيبًا - عنده۔ دور ہونا
 جدا ہونا۔ غَابَتِ الشَّمْسُ غَيْبًا
 وَ غَيْبُوۃً - سورج کا ڈوبنا۔ پھینا۔
 الشَّيْءُ عَنْ فُلَانٍ - پوشیدہ ہونا۔
 غیر حاضر ہونا۔ عَنْ بِلَادِهِ - سفر کرنا۔
 غَابَ يَعِيبُ غَيْبًا وَ غَيْبًا وَ غَيْبَةً
 وَ غَيْبَةً وَ غَيْبُوۃً - الشَّيْءُ فِي
 الشَّيْءِ - چھپنا۔
 غَابَهُ غَيْبَةً وَ اُغْتَابَهُ اُغْتِيَابًا -
 عیب گیری کرنا۔ غیبت کرنا۔
 غَيْبَهُ - دور کرنا۔ غَيْبَهُ غَيْبًا - اس کو
 اس کی قبر سے چھپا لیا، یعنی وہ اپنی قبر
 میں دفن ہوا۔
 اُغَابَتِ - الْمَرْأَةُ - عورت کے خاوند کا
 غائب و غیر حاضر ہونا۔ صفت (مَغِيبٌ
 وَ مَغِيبَةٌ وَ مَغِيبٌ)
 غَائِبُهُ مَغَائِبُهُ - غائبانہ کہنا۔ تَغِيبُ

عنده۔ غائب ہونا۔
 تَغَائِبٌ - الْقَوْمُ - غائب ہونا۔
 الْغَيْبُ - مم۔ شک، غائب و پوشیدہ
 چیز۔ راز۔ ہجید۔ پست زمین۔ ج۔
 غِيَابٌ وَ غَيْبٌ -
 الْغَيْبَةُ وَالْغَيْبَةُ - پست زمین۔ قبر
 الْغَيْبَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - پردہ۔
 مِنَ الْوَادِي وَالْجَبِّ - وادی یا
 کنوئیں کی گہرائی۔
 الْغَيْبَةُ - بدگوئی، غیبت۔
 الْغَائِبُ - فا۔ ج۔ غَيْبٌ وَ غَيْبٌ وَ
 غَيْبٌ وَ غَائِبُونَ - غیر حاضر۔
 الْغَائِبَةُ - بالنسب کی بھاری۔ پست زمین
 لوگوں کی جماعت۔ لمبا نیزہ۔ ج۔
 غَابَ وَ غَابَاتُ - غَابَةُ الْبَحْرِ
 سمندری کیڑوں کا متحجر درخت۔
 الْغِيَابُ - مم۔ قبر۔ غِيَابُ الشَّجَرِ وَ
 غِيَابُهُ - درخت کی جڑیں۔
 الْغَيْبُ وَالْغِيَابُ - غائب کا اسم مبالغہ
 الْغَيْبُوۃُ - غروب۔
 غَاثٌ يَعِيبُ غَيْثًا - اللَّهُ الْبَلَاءُ -
 ملک پر بارش برسانا۔ غَاثُ الْغَيْثِ
 الارض - بارش کا زمین پر برسنا۔
 صفت (مَغِيبَةٌ وَ مَغِيبَةٌ)
 غَاثُ النُّورِ - نور کا روشن ہونا۔
 تَغَيَّبَ - البعير - اونٹ کا موٹا ہونا۔
 الْغَيْثُ - بارش، بارش سے اُگی ہوئی
 گھاس - کبھی بادل کو بھی غیث ہوتے
 ہیں۔ ج۔ غِيُوۃٌ وَ اُغْيَاثٌ وَ -
 غَيْثٌ مَغِيبٌ - عام بارش۔ سَحَابٌ
 غَيْثٌ - بہت بارش برسانے والا
 بادل۔
 غَيْدٌ يَعِيبُ غَيْدًا - الغلام - بھکی
 ہوئی گردن والا ہونا۔ نرم کندھوں
 والا ہونا۔ صفت مذکر (اَغْيَدُ)

صفت مؤنث غَيْدًا - ج۔ غَيْدًا -
 تَغَائِدٌ - فِي مَشِيَّتِهِ - نزاکت کی وجہ
 سے چلنے میں بھگنا۔
 الْغَيْدُ - مم۔ نزاکت۔ الْاَغْيَدُ - نرم و
 نازک پودہ۔ مَكَانٌ اَغْيَدٌ - بہت
 نباتات والی زمین۔
 الْعَادَةُ - نازک و نرم اندام عورت۔ تَرَوَاتُ
 درخت۔ ج۔ تَعَادَاتُ - غَيْدَانُ
 الشَّيَابِ - آغاز جوانی۔ غَيْدًا غَيْدًا
 جلدی کرو۔ جلدی کرو۔
 غَيْدَقٌ - الْمَطَرُ - بارش زیادہ برسانا۔
 الْعَدَقُ - مم۔ بہت پانی۔
 الْغَيْدَقُ - مرسر۔ فیاض۔ و الْغَيْدَقُ
 و الْغَيْدَقَانِ، نرم و نازک، لام۔
 غَارَ يَغَارُ غَيْرَةً وَ غَيْرًا وَ غَارًا -
 الرجلُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ فُلَانٍ
 دھڑکی علیہ من فُلَانَةٍ - غیرت کرنا۔
 صفت (غَيْرَانٌ وَ غَيْرٌ وَ مَغْيَارٌ)
 مَوْنَتُ غَيْرٍ وَ غَيْرِي - ج۔
 غَيْرِي وَ غَيْرِي وَ غَيْرٌ وَ
 مَغَامِرٌ - اسم (الغيرة)
 غَارَهُ يَغِيرُهُ غَيْرًا - نفع دینا۔ غَارَهُ
 يَخْبِرُ - خبر کا فائدہ پہنچانا۔
 غَارَهُ يَغِيرُهُ غَيْرًا وَ غَيْرَةً - دیت
 دینا۔ خون بہا دینا۔ غَيْرَ الشَّيْءِ - بدلہ
 تبدیل کرنا۔
 غَيْرَةُ غَيْرًا وَ مَغَايِرَةً - تبادلہ کرنا۔
 مخالفت کرنا۔ بیچ میں مقابلہ کرنا۔
 غیر ہونا۔
 اَغَارَكَ اَغَارَةً - غیرت پر ابھارنا۔
 الرجلُ امْرَأَتَهُ - مرد کا دوسری
 شادی کر کے پہلی بیوی کو غیرت دلانا۔
 تَغَيَّرَ - بدل جانا۔ عَلَى امْرَأَتِهِ - عورت
 پر غیرت کرنا۔
 تَغَايَرَ - ایک دوسرے پر غیرت کرنا۔





اشیاء کا مختلف ہونا۔
 اَعْتَالَ اَعْتِيَالًا - الرجل - رسد مہیا کرنا۔
 اَلْغَيْثُ - مم - تبیل اختلاف - بَنَاتٌ غَيْثٌ - جمہور و باطل - غَيْرٌ - سوائے بمعنی لا - فَعَلَهُ غَيْرٌ مَرَّةً - اس نے اس کو کئی بار کیا غَيْثٌ رَجُلٌ - لا غَيْرَ - میرے پاس صرف ایک آدمی ہے، اور نہیں۔
 قَبَضْتُ عَشْرَةَ اَغْيَرَهَا اَوْ لا غَيْرَ - میں نے دس سے زیادہ نہیں لیے۔ جَاءَ الْقَوْمُ غَيْرَ فُلَانٍ فُلَانٍ کے سوا سب قوم آئی۔
 غَيْرَانٌ - تاہم - غَيْرُ الدَّهْرِ - زمانہ کے حادثات۔
 الْغَيْرَةُ - خون بہا، دیت، نخرت، غیرت۔ گندم کا ذخیرہ - جر - غَيْرٌ - الْغَيْرِيَّةُ - غیرت کے خلاف - دو چیزوں میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے کے خلاف ہونا۔
 الْمَغْيُورُ وَالْمَغْيُورُ - بارش سے سیراب شدہ جگہ۔
 غَاصَ يَغِيضُ غِيضًا وَمَغَاصًا - وَ تَغِيضٌ وَلِنَاقِصٍ - الماءُ - پانی کا کم ہونا - نیچے اتر جانا - الثَّمَنُ - قیمت کا گھٹنا۔
 غَاصَ وَتَغِيضٌ وَغَاصَ - الماءُ اَوْ الثَّمَنُ - پانی یا قیمت کو کم کرنا۔ دَمَعَةً - آنسو روکنا۔
 الْغِيصُ - مم - متوڑی مقدار - کسی غیر مکمل اسقاط شدہ بچہ۔
 الْغِيضَةُ - جنگل - بن - بہت درختوں والی وادی جگہ - جر - غِيَاضٌ وَ اَغْيَاضٌ وَ غِيَضَاتٌ - الْغِيصُ - پانی کے جمع ہونے کی جگہ - جر

مَغَايِضُ - غَاطَ يَغِيظُ غِيظًا - فَيَدُ - داخل ہونا۔ الْمَغَايِظَةُ - خصوصت الْغِيظُ - بارغ۔
 غَاظُهُ يَغِيظُهُ غِيظًا وَ غِيْظُهُ وَ اَغَاظُهُ وَ غَايِظُهُ - غصہ پر آمادہ کرنا۔
 تَغِيْظُ - الْحَرُّ - گرمی کا تیز ہونا۔ وَ اَعْتَاطَ - غصہ ہونا۔ ناراض ہونا۔ الْغِيْظُ - مم - غصہ یا سخت غضب۔ الْغِيَاظُ - غم، مشقت - الْمَغِيْظُ - ناراض، رنجیدہ۔
 غَاقَتْ تَغِيْقُ غَيْقَانًا وَ اَغْيَمَتْ وَ تَغْيَقَتْ - الشَّجَرَةُ - درخت کا دائیں بائیں لٹکی ہوئی شاخوں والا ہونا صفت (غَيْقَاءُ) غَيِيفٌ - بھاگنا - بزدل ہونا - وَ تَغْيَيْفٌ - عَنِ الْأَمْرِ - کام سے ہٹنا۔
 آغَافٌ - الْغُصْنُ - شاخ کو جھکانا۔ الْغَافُ - ایک بہت سیٹھ پھل کا درخت - واحد رَحَافَةٌ - الْغَيْفُ - پرندوں کا جھٹ یا خول۔
 الْأَغْيَفُ - نازک بدن - عَيْشٌ أَغْيَفٌ - آسودہ زندگی - شَجَرَةٌ غَيْفَاءٌ - جھکی ہوئی شاخوں والا درخت۔
 الْغِيَاثُ - بہت لمبی دائرہ والی۔ الْغَيْفَانُ وَالْغَيْفَانُ - متکبرانہ چال۔ غَيْثٌ - المَالُ - بگاڑنا - فاسد کرنا - غِي رَايِلَہ - غیر مستقل مزاج ہونا۔ الطَّائِرُ پرندہ کا اپنی جگہ پر پھڑپھڑانا - بَصْرَكَ - نگاہ کو پھیرنا۔
 تَغْيَقَتْ - الْعَيْنُ - آنکھ کا تاریک ہونا۔ غَاقٌ - مبنی علی الکسر - کوئے کی آواز کی حکایت کائیں کائیں۔
 الْغَاقُ - کوا - ر - وَالْغَاقَةُ - مُرْغَابِي۔

غَالَتْ تَغِيْلُ غَيْلًا وَ اَغَالَتْ اِغَالَةً - الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا - بچہ کو حاملہ ہونے کی حالت میں دودھ پلانا - صفت (غَائِلَةٌ وَ مُغِيْلٌ وَ مُغِيْلٌ) غَالَهُ يَغِيْلُهُ غِيَالًا وَ غِيَالَةً وَ غَوَّلًا - جُرَّانَا۔
 اَغْيَلْتُ اِغْيَالًا - الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا حاملہ ہونے کی حالت میں بچہ کو دودھ پلانا - الشَّجَرَةُ - درخت کا بڑا اور گنجان ہونا - الْغَنَمُ - بکری کا سال میں دودھ بچہ دینا۔
 تَغِيْلٌ - الْقَوْمُ - قوم کے مویشیوں کا زیادہ ہونا۔
 تَغْيَلْتُ وَ اسْتَغْيَلْتُ - الشَّجَرَةُ - درخت کا گنجان شاخوں والا ہونا - صفت (مُغْيَالٌ) اَعْتَالَ اَعْتِيَالًا - الْغَلَامُ - بڑے کا موٹا تازہ ہونا۔
 الْغَيْلُ - مم - حاملہ عورت کا دودھ بہت موٹا لڑکا - مَوْتٌ غَيْلَةٌ - زمین پر بننے والا پانی - وہ وادی جس میں چشمے جاری ہوں - دور کی چیز جو نزدیک نظر آئے - جر - اَغْيَالٌ - الْغِيْلُ - بن - جنگل - بہت شاخوں والا گنجان درخت - پانی والی وادی - شیر کی جگہ - جر - اَغْيَالٌ وَ غِيُولٌ - الْغَيْلَةُ - دھوکا - غفلت سے مار ڈالنا - حل کے وقت دودھ پلانا۔
 الْغَائِلَةُ - شَرٌّ - پوشیدہ کینہ - حوض کا شگاف - جر - غَوَائِلٌ - الْغَوَائِلُ - بمصیبتیں اَلْمَغَالَةُ - شَرٌّ - برائی۔
 الْاَغْيَالُ - پُر گوشت - موٹا۔
 الْغِيَالُ - شَرٌّ - اَلْمَغْيَالُ - گھنا سایدہ درخت۔
 غَامَتْ تَغِيْمُ غِيْمًا وَ غِيْمَتْ وَ اَغَامَتْ

إِعَامَةً وَأَعْيَمَتْ إِعْيَامًا و
تَعَيَّمَتْ - السَّمَاءُ - آسَمَانُ كَابَدَل
والابونا - غَامُ البَعِيرُ - اُونُثُ كَا
پياسا ہونا - صَفَتْ غَيْمَانُ - مُوْنُثُ
غَيْمِي - اَعْيِمُ الْقَوْمُ - پياسا ہونا -
اَعْيَمُوْنِي الْمَكَانَ - اَقَامْتُ كَرْنَا -
غَيْمٌ - البَعِيرُ - اُونُثُ كَا پياسا ہونا - صَفَتْ
مَغْيُومٌ -
الغَيْمُ - مص - بادل - ج - غَيُومٌ - واحد
(غَيْمَةٌ) پياس - اُونُثُ كَا ایک
پياس لگانے والی بیماری - يَوْمٌ
غَيُومٌ - بدل کا دن -
عَانَ يَغِيْنُ غَيْئًا - پياسا ہونا - غَانَتْ
نَفْسُهُ - جی مٹلانا -
غَانَتْ وَغِيْنَتِ السَّمَاءُ - آسمان پر
بادل چھا جانا -
غِيْنٌ وَ اَغْيِنُ - عَلَي قَلْبِهِ - خواہشات
کا غالب ہونا -
اَغَانُ - السَّحَابُ السَّمَاءُ - بادل کا
آسمان پر چھا جانا -
غَيِّنَ - غَيَّنَا - حرف غین لکھنا -

الغَيْنُ - مص - حروف تہجی میں سے ایک حرف
بادل -
الغَيْنَةُ - گھنے درخت - الغَيْنَةُ - پریپ
مُرُوَارِ سے بننے والا مادہ - درختوں کا
جھنڈ -
الْغَيْنُ - مِنَ الشَّجَرِ وَالنَّبَاتِ - سرسبز
لبادرخت - مُوْنُثُ غَيْئًا - ج - غِيْنُ -
الغَيْصُ - تاریکی -
غَيًّا تَغْيِيَّةً وَ اَغْيَا غَيَاءً - الغَايَةُ
ای الِوَايَةِ - جھنڈا گاڑنا - غَيًّا
لِلْقَوْمِ - جھنڈا گاڑنا - الطَّيْرُ عَلَى
الشَّيْءِ - پرندہ کا پھر پھر انا - اَغْيَا
السَّحَابُ - بادل کا ایک جگہ پر پھر
جانا - اَغْيَا الرَّجُلُ - شرافت اور
معاملہ میں انتہا تک پہنچنا - الْفَرَسُ
فِي سَبَاقِهِ - گھوڑے کا گھوڑ دوڑ میں
حدمقررہ پر پہنچنا -
غَايَا مُغَايَاةً - الْقَوْمُ فَوْقَ رَاسِهِ
بِالسُّيُوفِ - سر پر تلواروں کا بلند
کرنا -
تَغَايَتْ - الطَّيْرُ عَلَى الشَّيْءِ - پرندہ کا

گھومنا - مِثْلًا لَنَا - تَغَايَا عَلَيَّ حَتَّى
قَتَلُونِي - انھوں نے ایک دوسرے
کو اس کے خلاف مدد دی اور قتل کر
دیا -
الغَايَةُ - انتہا - مدت - جھنڈا - مقصود و
فائدہ - نتیجہ - ج - غَايَاتٌ وَ غَايٌ -
نسبت کے لیے غَايٌ - غَايَتُكَ
أَنْ تَفْعَلَ كَذَا - تمہاری انتہائی
طاقت یہ ہے کہ تم ایسا کرو -
الغَايَةُ - پھر پھر انا - اَلَا پَرْنَدَ -
چڑیوں کے شکار کرنے - اَنْتَ
بَعِيدُ الغَايَةِ - تمہاری رائے
درست ہے -
الغَايَةُ - سورج کی شعاع کی روشنی -
کنویں کی گہرائی - ہر چیز پر سایہ کے
جیسے بادل و غبار - ج - غَايَاتٌ -
المُغْيَا - ایسا مقصد جس کی کوئی غایت
ہو سکتے ہیں - الغَايَةُ لَا تَدْخُلُ
فِي الْمُغْيَا - حدِ محدود میں داخل
نہیں -

ف

الفاء - یہ حرف عطف ہے جو کہ کئی معنوں
میں مستعمل ہے -
۱ - ترتیب - جیسے قَائِمٌ زَيْدٌ فَحَمَرُو
۲ - تعقیب - جیسے جَلَسَ زَيْدٌ
فَقَتَلَهُ -
۳ - سببیت - جیسے ضَرَبَ زَيْدٌ
فَمَاتَ -
۴ - یہ فاء حرف رابطہ ہے اس لیے و
جواب شرطیں آتی ہے - جیسے - اِنْ
كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَ

صَايَايَ - نیز شبہ جواب شرطیں بھی
آتی ہے - جیسے اَلَّذِي يَأْتِيَنِي
فَلَهُ دِرْهَمٌ -
۵ - حرف فاء ناصبہ ہے جو کہ مضارع پر
بتقدیر اُن داخل ہوا کرتی ہے - جیسے
لِرَبِّي فَا كَرِمَكَ -
۶ - ف استیناف کے لیے بھی آتی ہے
جیسے يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - اس میں
يَكُونُ کو رفع ہے اس لیے کہ اصل
عبارت فهُوَ يَكُونُ ہے -

۷ - ف زائدہ ہوتی ہے جیسے - زَيْدٌ
فَلَا تَغْرِبْهُ وَخَرَجْتُ لِيَاكُذَا
الْأَسَدُ فِي الدَّارِ - مَاتَا قَمْتُ
فَقَمْنَا -
أَفْتَاتَ - بَدَايَةُ - رائے سے مفرد ہونا -
عَلَى الْبَاطِلِ - امر باطل - اُفْتِيْتُ - اچانک مر گیا -
فَادَهُ (ف)، فَاوَدَا - دل پر مارنا - دل پر لگنا
- الْخَوْفُ فَلَانَا - بزدل بنانا -
اللَّحْمُ فِي النَّارِ كَوَشْتِ بَهْمُنَا -

الْخُبْرُ رُوئِي كَوْهِيْلَ بَيْنِ دَانَا -
فَيْدَا فَاْدَا وَفَيْدَا رَسَ فَاْدَا - دَلْ كِي
بِمَارِي وَالْاَبَوْنَا -
اَفْتَاْدَا - الرَّجُلُ - بَهْنَنَ كَ لِيْءِ اَكْ
جَلْنَا - اَللَّحْمَ فِي النَّارِ - گوشت
بَهْنَنَا -

تَفَادَت - اِنَار - اَكْ كَا جَلْنَا -
الْفَوَادُ - دَل - لِيَا اَوَقَاتِ عَقْلٍ بِرَبِّيْ اس
كَاطْلَاقٍ بَوْتَا بِي - ج - اَفَيْدَا -
الْفَيْدُ - اَكْ مِيں بَهْنَنَا بَوَا - لِيَا بَزْدَلِ جِيں
مِيں دَلَاوِي كَا نَامُ نہ بَو -
الرَّشُوْدُ - بَهْرِيْلَ مِيں بِي بُوئِي رُوئِي - بَهْرِيْلَ
مِيں رُوئِي كَ لِيْءِ جَلَا - ج - اَفَاْنِيْدُ -
الْمُقْتَادُ - اَكْ جِيں كِي جَلَا -
الْمُقَادُ وَالْمُقَادُ وَالْمُقَادَةُ - اَكْ
كَرِيْءَ كَا لُوَا - مَكْرِي - سِيخ - ج -
مَقَاْنِيْدُ وَمَقَاْنِيْدُ -
الْمَقُوْدُ - دَل كِي بِيَارِي وَالَا - بَزْدَل -
بَهْرِيْلَ كِي بِي بُوئِي رُوئِي - بَهْنَنَا بَوَا
گوشت -

فَاْدَا رَفَ فَاْدَا - اَلتَّرَابُ - مِيں كھو دَنَا
- الشَّيْ - دَفَنَ كَرْنَا - چھپَانَا -
فَيَرَسَ فَاْرَا - اَلْمَكَانُ - بَسْتِ چَوِي
وَالَا مَكَانَ بَوْنَا -

الْقَارُ - چَوَا - ج - فَيَرَاتُ وَفَيَرَةُ - اس
كَوَا صَدْقَارَا - مَذَكَّرَ اَو مَوْنُثَ دَوْنِ
كَ لِيْءِ مُسْتَعْلَ بِي -

الْفَارَةُ - مَشَكَّ كَا نَا فَر -
مَكَانٌ قَوْرٌ وَارَضٌ قَوْرَةٌ وَمَقَارَةٌ
بَسْتِ چَوِي بَوْنِ وَالَا مَكَانَ - بَسْتِ چَوِي
وَالِي زَمِيْن -

فَاسَ رَفَ فَاَسَا - اَلْخَشْبَةُ - مَكْرِي كُو
كَلَا طَرَا سَ بَھَاڑَنَا - الرَّجُلُ - كَلَا طَرِي
سَ مَارَنَا - سَرَكَ پَچھلے حَصَدَ پَر لَگْنَا -
الْفَاسُ - كَلَا طَرِي - كِيْجِي بَغِيْرَ بَمَرَهَ كَ بِي

بَوَلَا جَاتَا بِي (فاس) اَو رِيْءِ مَوْنُثَ
سَمَاعِي بِي - ج - اَفُوْسُ وَفُوْسُ -
فَاسُ الرَّائِي - سَرَكَ پَچھلے حَصَدَ كِي
اَبْرِي بُوئِي بَدِي - فَاسُ الْفَحْدِ - مَنَ
كَوَا كَنَارَهَ جِيں مِيں دَانَتِ بِيں - فَاسُ
الْبِجَامُ - لَگَامُ كَاوَا لُوَا بَو كُھوڑے كَ
مَنَ مِيں بَوْتَا بِي -

فَاْفَا فَاْفَا فَاْفَا - الرَّجُلُ - حَرْفَ فَاْ كَا
كَثْرَتِ سَ بَوْنَا - صَفَتِ رَخَاْفَا وَ
فَاْفَا

فَاَقَ دَنَ فَوَاَقَا - بِيْجِي آنَا -
الْفَوَاقُ - دَه بَوَا بَو مَعْدَه سَ نَكْطِي بِي -
بِيْجِي ڈُكَا -

فَاَلَا تَفْعِيْلًا - هَالَشْيُ - فَالَ لِيْنَا -
تَفَالٌ وَتَفَاعُلٌ وَفَتَالٌ - بِلَا - اَبْجِي
فَالَ لِيْنَا -

الْفَالُ - نِيك شَكُوْنُ جِيْسَ مَرِيْنِ كِي كُو
"يَا سَالِمُ" كَتَے بَوَے سَ تَوَا سَ سَ
بِي سَچَ كَ صَحْتِ بَو جَا لَے كَا - كَمَا جَاتَا بِي
"لَا فَاَلٌ عَلَيْكَ" - بِيْجِي تِيْرَے اَو پَر كُوئِي
مَزْرَبِيں - ج - فَوُوْلُ وَافْعُوْلُ -
فَاَهَرَفَ فَاْمَا - مِيْنِ الْمَاءِ - پَانِي سَ

سِيْرَابِ بَوْنَا -
فَاَمَ وَفَلَحَ فَاْمَا وَتَفَاَمَ - اَلْبَعِيْدُ
گھَا سَ سَ مَنَ بَهْرَنَا -
فَاَمَ وَفَاَمَ - اَلْقَتَبُ - پَالَانِ كُو سِيخ
كَرْنَا - اَفَاَمَ الدَّكُو - ڈُوْلَ بَهْرَنَا -

الْفَتَامُ - لُوْگُوں كِي جَمَاعَتِ - اس لَفْظَ كَا
وَاحِدَ نِيں آتَا بِي - ج - فَوُهْرُ كَمَا
جَاتَا بِي - قَطْعُوْهُ (فَوُوْمَا) - بِيْجِي
مَكْرُطَے مَكْرُطَے كَر دِيے -

فَاَيُّ يَفَاي فَاَوَا وَفَاَيَا - رَأْسُ
فَلَاوِنَ - كِي كَ سَرَكُو تَوَا سَ بَھَاڑَا
دِيْنَا -
اَفَاَيُ - تَنَگَ وَاْدِي مِيں پُڑْنَا -

تَفَايُ - الْقَدْحُ - پِيَالَهَ كَا پَھْنَنَا -
اَلْفَايُ - كَهْنَا - اَلشَّيْ - پَھْنَنَا -
الْفَاوُ - دَو پَھَاڑُوں كَ دَرْمِيَانِ شَكَاغِ
پُڑْنَا - وَاْدِي مِيں تَنَگَ جَلَا كَا بَوْنَا - چَكْنِي
جَلَا - رِيْتِ كَا تَوَدَه - رَاْتِ - آفْتَابِ
غُرُوبِ بَوْنَ كِي جَلَا - پَھَاڑُوں كَ دَرْمِيَانِ
عَمْدَه زَمِيْن -

الْفَيْشَةُ - جَمَاعَتِ - اَكْرُوَه - ج - رَفَاتُ وَ
رَفُوْنُ -

فَتَّ دَنَ فَتَّا وَفَتَّتَ - اَلشَّيْ - اَنكِبِيں
سَ چَھوٹَے چَھوٹَے مَكْرُطَے كَرْنَا - كَمَا جَاتَا
بِي - "فَتَّ فِي سَاعِيْدَةٍ" - بِيْجِي اس
نَے اس كُو مَكْرُوْر كَر دِيَا - فَتَّ فِي عَصِيْدَةٍ
بِيْجِي اس كِي قُوْتِ تَوُرُوْدِي - اَو رَا سَ
كَ اَعْوَانِ وَالنَّصَارَ كُو مُتَفَرِّقَ كَر دِيَا -
اَلْفَتَّ وَتَفَتَّتَ - مَكْرُطَا -

الْفَتَّ - مَم - پَھَر مِيں پَھْنَن - كَمَا جَاتَا بِي
"هُمَّ اَهْلُ بَيْتِ فَتَّ وَفَتَّ وَ
فَتَّ - دَه لُوْگُ مُنَشَّرِيں -

الْفَتَّةُ وَالفَتَّةُ خَشَكِ مِيْنَكِيَاں جُو
تَوُرُوْی جَائِيں اَو رَچھَا قِ كَ نِيْچَے رَکھَا
اَكْ رُوْشَ كِي جَا لَے - كَمَا جَاتَا بِي - "هَذَا
لَا لِيْسَاوِي فَتَّةً" - بِي مِيْنَكِي كَ بَرَابَر
نِيں بِي - كَھجُوْرُوں كَا ڈُھِيْر -

الْفَتَاتُ - چَوَا - اَلْمَقْتُوْتُ - چَوَا -
الْفَتِيْتَةُ - رِيْزَه رِيْزَه شَدَه چِيْرَا كَا اِيْكُ مَكْرُطَا
ج - فَتَاتِيْتُ -

الْفَتِيْتُ وَالْفَتُوْتُ وَالْمَقْتُوْتُ - چَوَا
كِيَا بَوَا -

فَتَاْرَفَ فَتَّا - اَلنَّارُ - اَكْ بَجَانَا - كَا
عَنِ اَلْاَمْرِ كِي كَامِ سَ رُوْكِ دِيْنَا -
فَتِيْ رَسَ فَتَّا - عَنَدُ - لَگْنَا - بَهْرَنَا -
كَمَا جَاتَا بِي - "مَا فَتَّا وَمَا فَتِيْ -
يَفْعَلُ ذَلِكَ" - بِيْشَہَ يَہَ كَر تَا رَا -
اَو رِيْءِ اَفْعَالِ نَاقِصَہ مِيں سَ بِي اَو

ف

سوائے ماضی و مضارع کے دوسرے افعال کا اس سے استعمل نہیں ہوتا۔
 فَتَحَ (ف) فَتْحًا - البَابُ - دروازہ کھولنا۔ الْفَتْحَةُ - پانی لینے کے لیے نالی نکالنا۔ الْبِلَادُ - ملک پر غلبہ حاصل ہونا۔ مَالِكٌ ہونا۔ فتح کرنا۔ الْحَاكِمُ بَيْنَ النَّاسِ - حاکم کا فیصلہ کرنا۔
 فَتَحَ - اللَّهُ عَلَيْهِ سَكْرًا دینا۔ معرفۃ بخشنا۔ سَيِّدٌ عَلَى فُلَانٍ - کسی پر بھید ظاہر کرنا۔
 فَتَحَ فَتْحًا وَفَتْحًا - اللَّهُ عَلَى فُلَانٍ مدد کرنا۔
 فَتَحَ - بمعنی فَتَحَ - تشدید کے ساتھ مبالغہ کے لیے آتا ہے۔
 تَفَتَّحَ - کھلنا مطاوع فَتَحَ ہے۔ رَفِي الْكَلَامِ وَبِأَمَلٍ عَلَى فُلَانٍ - اظہار کرنا اور فخر کرنا۔ تَفَتَّحَتِ الْأَكْمَامُ عَنْ التَّوَرِّكِ - کلی کا کھلنا۔
 انْفَتَحَ - فتح کا مطاوع آتا ہے۔ انْفَتَحَ عَنْ الشَّيْءِ - کسی شے کو کھول دینا۔
 فَاتَحَ - فیصلہ کے لیے لے جانا۔ بِالْأَمْرِ - پہلے مخاطب کرنا۔ فُلَانٌ بَهَاؤُكُمَا اور کچھ نہ دیا۔ الْبَيْعُ - بیع میں آسانی کرنا۔
 تَفَاتَحَ - الْقَوْمُ كَلَامًا بَيْنَهُمْ - آپس میں چپکے چپکے باتیں کرنا۔
 انْفَتَحَ - الْبِلَادُ - ملک فتح کرنا۔
 اسْتَفْتَحَ - الْبُيُوتُ - دروازہ کھولنا کھولنا۔ الْأَمْرَ بَكْدًا - شروع کرنا۔
 - الرَّجُلُ - مدد طلب کرنا۔
 الْفَاتِحُ - فَاحٌ - جہ - فَتْحَةٌ وَفَاتِحَتٌ - الْفَتْحُ - ممد - وہ روزی جو حق تعالیٰ عنایت فرمائے۔ دریاؤں کا جاری پانی موسم بہار کی پہلی بارش۔ جہ - فَتُوْحٌ

يَوْمَ الْفَتْحِ - قیامت کا دن۔
 الْفَتْحُ - ایک قسم کی حرکت جس سے منہ کھل جاتا ہے۔
 الْفُتُوْحَاتُ - لڑائی سے جو مالک فتح ہوں۔
 الْفَتْحَةُ - ایک مرتبہ کھولنا۔ حرکت زبر کو بھی کہتے ہیں۔
 الْفَتْحَةُ - ممد۔ مدد۔
 الْفَتْحَةُ وَالْفَتْحَةُ - دودشمنوں کے درمیان فیصلہ کما جاتا ہے بَيْنَهُمَا فَتَاكَاتٌ یعنی ان دونوں کے درمیان خصوصیتیں ہیں۔
 الْفَتْحُ - کھلا ہوا وسیع دروازہ کھلی ہوئی وسیع شیشی۔
 الْفَتْحَةُ - کشادگی۔ اپنے علم و ادب یا مال پر فخر کرنا۔ جہ - فَتَحَ۔
 الْفَاتِحَةُ - مِنَ الشَّيْءِ - ابتداء۔ اور اسی سے ہے فَاتِحَةُ الْكِتَابِ - جہ - قَوَائِمُ۔
 الْفَتُوْحُ - موسم بہار کی پہلی بارش۔ جہ - فَتَحَ۔
 الْفَتْحُ وَالْفَتْحُ وَالْفَتْحَةُ - حکومت الْفَتْحُ - صیغہ مبالغہ۔ حاکم۔ قاضی۔
 الْإِسْتِفْتَاْحُ - ممد۔ اور حرفِ اسْتِفْتَاْحِ نخویں کے نزدیک "آل" ہے۔
 الْمَفْتَحُ - خزانہ۔ دھینہ۔ جہ - مَفَاتِيْحُ۔
 الْمِفْتَاحُ - پانی کی نالی کبھی۔ جہ - مَفَاتِيْحُ۔
 الْمِفْتَاحُ - کبھی۔ جہ - مَفَاتِيْحُ۔
 فَتَحَ دَسَ، فَتَحَا، دُحِيلَ، نِمَ اور کمزور جوڑوں والا ہونا۔ صفت (دَا فَتَحَ) فَتَحَ دَفَ، فَتَحَا وَفَتْحَ - أَصَابِعُهُ - انگلیوں کو مروڑنا۔ نرم کرنا۔
 انْفَتَحَ - الرَّجُلُ - سانس پھولنا بھگنا۔
 كَفَتَحَ - چھلا پنہنا۔
 الْفَتْحَةُ وَالْفَتْحَةُ - چھلا۔ بغیر نگینہ کی

انگوٹھی۔ نگینہ والی انگوٹھی کو خَاتَمٌ کہتے ہیں۔ جہ - فَتَحَ وَفَتْحَاتٌ وَفُتُوْحٌ وَفَتْحَا - فَتُوْحُ الْأَسَدِ شیر کے پنجے۔
 الْاَفْتَحُ - نرم کمزور اور ڈھیلے جوڑوں والا۔
 مَوْنٌ فَتَحَا - جہ - فَتَحَ - أَسَدٌ أَفْتَحَ - پوڑے ہاتھ پاؤں والا شیر رَجُلٌ أَفْتَحَ الطَّرْفَ - کمزور نگاہ والا مرد۔
 الْفَتْحُ وَالْفَتْحَةُ - گٹے سے بازو تک کا اندرونی حصہ۔
 فَتَرَدَنَ (ض) فَتُوْرًا وَفَتْرًا وَفَتْرًا تیزی کے بعد ساکن ہونا۔ سختی کے بعد نرم پڑنا۔ الْمَاءُ - حرارت کم ہونا۔
 عَنِ الْعَمَلِ - کوتاہی کرنا۔
 فَتَرَفُوتًا وَفَتْرًا - رَجْمُهُ - نرم اور کمزور جوڑوں والا ہونا۔
 فَتَرَفُوتًا وَفَتْرًا - الْحَزْ - کم ہونا فَتَرَفُوتًا فَتَرًا۔
 فَتَرَفُوتًا تیزی کے بعد ساکن ہونا اور سختی کے بعد نرم پڑنا۔ السَّحَابُ - بادل کا ٹھہرنا۔ آمادہ بارش ہونا۔ فَسْكُونٍ وزمی پر آمادہ کرنا۔ الْمَاءُ - گرم پانی کی حرارت کو کم کرنا۔
 أَفْتَر - کمزور پلوں والا ہونا۔ الشَّرَابُ - شراب کا مست کر دینا۔ الدَّاءُ أَوْ السُّكْرُ - بیماری یا نشہ کا کسی کو کمزور و ضعیف کر دینا۔
 اسْتَهْتَر - الْفَرْسُ - گھوڑے کو مسافت سے آزاد کر دینا۔
 الْفَتْرُ - کمزوری۔ جہ - فَتُوْرٌ۔
 الْفَتْرُ - دَنَ (ض) انگشت شہادت اور انگوٹھے کے سروں کے درمیان کا حصہ۔
 کھلی ہوئی حالت میں۔
 الْفَتْرُ - کجیور کی چٹائی جس پر آٹا چھانا

جاتا ہے۔

الْفَتْرَةُ: سستی، کمزوری، صلح۔ بخار کی دو

باریوں کے درمیان کا زمانہ۔ دو نبیوں

کے درمیان کا زمانہ۔ جر۔ فُتْرَاتٌ۔

الْفُتْرُ: ایک قسم کی پھلی جس کے پکڑنے سے

کپکپی پیدا ہو جاتی ہے۔

الْفُتَارُ: مہم۔ ابتدائی غشی۔ مَاءٌ قَالُورٌ۔

نیم گرم پانی۔

فُتْرَصَةٌ: فُتْرَصَةٌ: کاٹنا۔

فُتْشَ (رض) فُتْشَا وَفُتْشَ: الشَّيْءُ۔

ڈھونڈنا تلاش کرنا۔ فُتْشَ وَفُتْشَ

عَنْهُ: سوال کرنا اور بحث کرنا۔

الْفُتْشَانِ: صید مبالغہ بہت جستجو کرنے والا

بہت تلاش کرنے والا۔

فُتَّحَ: دھن۔ فُتَّحَا: الشَّيْءُ۔ روند کر ریزہ

ریزہ کرنا۔

فُتَّخَ: ریزہ ریزہ ہونا۔

فُتَّتْ إِلَيْهِ: فُتَّتَتْ: چپکے چپکے بات

کنا۔ کہا جاتا ہے مَا هَذَا الْفُتَّتَةُ

وَالدُّنْدَنَةُ۔

الْفَتَايَةُ: پوشیدہ باتیں۔

فُتِقَ (رض) فُتِقًا وَفُتِقَ: الشَّيْءُ۔

پھاڑنا۔ الثَّوبُ: کپڑے کی سیون توڑنا

اُدْحِيزْنَا: اَلْمَسْكُ: مشک کی خوشبو

نکلانا۔ النَّجِيجُ: گندھے ہوئے

آٹے میں خمیر ڈالنا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ:

قوم میں اختلاف پیدا کرنا۔ الکَلَامُ

واضح کرنا۔

فُتِقَ (رض) فُتِقًا: المَكَانُ: سرسبز ہونا۔

أَفُتِقَ: القَوْمُ: قوم کا خوشحال ہونا۔

تَفُتَّقَ: قَرْنُ الشَّمْسِ: آفتاب کا

بادلوں میں سے ظاہر ہونا۔ السَّحَابُ

بادل کا کھل جانا۔ الرجلُ: مختلف

مصائب و آفات میں مبتلا ہونا۔

تَفُتَّقَ وَانْفُتَّقَ: پھٹنا۔ وَانْفُتَّقَتْ

الْمَايَشِيَّةُ: مولشی کا موٹا ہونا۔ تَفُتَّقَ

فَلَانٌ بِالْكَلامِ: زبان کا رواں ہونا۔

الْفُتْقُ: مہم۔ کشادہ جگہ۔ کہا جاتا ہے۔

”خَوَّجَ فَلَانٌ إِلَى فُتْقٍ“ فلاں آدمی

ایسے مقام کی طرف گیا جہاں بارش

نہیں اور اس کے ارد گرد بارش ہے۔

جر۔ فُتُوقٌ: کہا جاتا ہے: عَامٌ

ذُو فُتُوقٍ: کم بارش کا سال۔

سرسبز، قحط سالی۔ زندگی میں خلل۔

ایک بیماری کا نام جو نیچے کی کھال میں

ہوتی ہے۔

الْفُتْقُ وَالْفُتْقُ: صبح۔

الْفُتْقُ: بڑا بوریا۔ آفتاب۔ آفتاب کی

شعاع۔ درخت خرما کی سفید جڑ۔

مختلف دواؤں کا مرکب۔ دواؤں

کے ایک خاص مرکب کا نام۔

الْفُتُوقُ: آفات، جسے مرض۔ بھوک۔

فقیر۔ تھوڑی بارش۔

الْفُتَيْقُ: موٹائی سے پیٹ جانا۔ الصُّبْحُ

الْفُتَيْقُ: پچنے والی صبح۔ رَجُلٌ

فُتَيْقٌ: اللِّسَانُ: تیز زبان مرد۔

إِمْرَأَةٌ فُتْنٌ وَمُتَفَتِّقَةٌ: تیز زبان۔

جلد جواب دینے والی عورت۔

الْمُفْتُوقُ: مفرق، فتق کی بیماری والا۔

الْفُتَيْقُ: دربان۔ بڑھی، لوہار۔ بادشاہ۔

مُفْتَقٌ: الْقَيْصِيصُ: قیص کا گریبان۔

فُتَكَ (رض) فُتَكَ وَفُتَكَ وَفُتَكَ وَ

فُتُوكَا: الرجلُ: دلیر ہونا۔ بہادر

ہونا۔ نڈر ہونا۔ رِفْلَانٌ: غفلت

میں پکڑنا یا قتل کرنا۔ فِي الْأَمْرِ: کسی

کام میں اصرار کرنا۔ مبالغہ کرنا۔

فُتَكَ (رض) فُتُوكَا: فِي صَنَاعَةٍ:

اپنے پیشہ میں ماہر ہونا۔ فِي الْحُبُوبِ

خباثت میں مبالغہ کرنا۔ الْقُطُنُ:

روئی دھننا۔

أَفُتِكَ: الرجلُ: فتق کے ہم معنی ہے۔

فَاتَكَ: مُفَاتَكَ: کلمہ کھلا قتل کرنا۔

فَاتَكَ الشَّيْءُ وَالْأَمْرُ: کسی کام کو

• سختی سے کرنا۔ ۵۔ ہنرمندی میں مقابلہ

کرنا۔ مانگی ہوئی قیمت دینا۔

تَفَتَّكَ: يَأْمُرُ: خود رائے سے کام کرنا اور

کسی سے مشورہ نہ کرنا۔

الْفَاتِكُ: فا۔ دلیر، بہادر۔ جر۔ فُتَاكَ:

کہا جاتا ہے: هُوَ فَاتِكُ الْقَلْبِ:

وہ کام کر گزرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے۔

”مَا أَفُتَكَ“: یعنی وہ بہت جھگڑا

ہے۔

فُتِلَ (رض) فُتِلًا وَفُتِلَ: الْحَبْلُ:

رسی بننا۔ وَجْهَهُ عَنْهُمْ: ان سے

اپنے چہرہ کو چھپالیا۔ دُؤَا بَيْتَهُ

فَلَانٌ: یعنی اس کو رائے سے ہٹا دیا۔

الْبُلْبُلُ: چھپانا۔ مثل ہے: مَا

زَالَ الْفُتَيْلُ مِنْ فُلَانٍ فِي الذُّرُوقِ

وَالْعَارِبِ: یعنی وہ فلاں کی فریب دہی

کے لیے چکر لگاتا ہے۔

فُتِلَ (رس) فُتِلًا: بعید پہلوؤں والا ہونا۔

صفت (أَفُتِلَ) مُؤْنِثٌ فُتِلًا: ع۔

تَفُتَّلَ وَانْفُتَّلَ: رسی وغیرہ بٹ جانا۔

مطاوع فُتِلَ کا ہے۔

الْفُتْلَةُ: قُتِلَ کا اہم جو مرتبہ کے لیے آتا

ہے۔ ہاتھ کے پٹے کی سختی۔ بیری اور

بول کے دانے رکھنے کا برتن۔ جر۔

قُتِلَ:

الْفُتْلَةُ: درخت عُفْطُ اور عَصَا کا دانہ

جر۔ قُتِلَ: کہا جاتا ہے: مَا أُغْنِي

عَنْكَ فُتْلَةٌ أَوْ فُتْلَةٌ: یعنی میں تم

کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔

الْفُتَيْلُ: بٹی ہوئی تہی۔ مُؤْنِثٌ: فُتَيْلَةٌ:

کھجور کی ٹھکی کے شکاف میں باریک تہی

(د) الْفُتَيْلَةُ: وہ تہی جس سے چراغ

ف

روشن کیا جاتا ہے۔ ج۔ فِتْنًا یُلِّدُ وَ
فِتْنَاتٌ۔

الْفِتْنَالُ۔ بہت بٹنے والا۔ مبل۔

الْمُفْتَلَةُ۔ بٹنے کا آلہ۔

الْمُفْتُولُ۔ مفع۔ مَفْتُولُ الْخَلْقِ مضبوط
اور گھمے ہوئے جسم والا۔

فَتْنَهُ رَضٍ فَتْنًا وَفُتُونًا وَافْتَنَهُ وَ
فَتْنَهُ۔ تجب میں ڈالنا۔ مائل کرنا۔

فریفتہ کرنا۔ فتنہ میں ڈالنا۔

فَاتِنٌ۔ الرجلُ۔ فتنہ میں پڑنا لازم و
متمدی صفت فَاتِنٌ۔ ج۔

فُتَاتٌ۔

فَتْنٌ رَضٍ فَتُونًا وَفُتِنَ۔ اِلَى النِّسَاءِ
عورتوں سے بدکاری کا ارادہ کرنا۔

فَتْنٌ رَضٍ فَتْنَةً وَصَفُوتًا۔ خِلَانًا۔
گمراہ کرنا۔ آزمائش کرنا۔

فَتْنٌ۔ فُتِنَا۔ الشَّيْءُ۔ جَلَانًا۔ فَتْنٌ فَلَانًا
عَنْ رَابِعٍ۔ روک دینا۔ پھیر دینا۔

فَتْنٌ۔ فُتْنُهُ۔ الصَّائِعُ الذَّهَبِ۔
سُور کا سونے کو پگھلا کر کھوٹا کھرا

معلوم کرنا۔

فُتِنَ وَافْتُنِنَ۔ مصیبت زدہ ہو کر مال
یا عقل کا جاتا رہنا۔ فِي وَفْنِهِ۔

اعراض کرنا۔

افْتُنِنَ۔ فتنہ میں پڑنا۔ افْتَتَنَهُ۔ فتنہ
میں ڈالنا۔

لَفْتَنَهُ۔ فتنہ میں ڈالنے کے لیے تکلف کرنا۔

الْفَاتِنُ۔ فَا۔ چور شیطان۔ حق سے
گمراہ۔

الْفَتْنُ۔ م۔ حال، فن، قسم، اور اسی سے
ہے الْعُمُرُ فُتْنَاتٌ۔ یعنی عمر کی دو

قسمیں ہیں۔ اچھی اور بُری۔

الْفِتْنَةُ۔ م۔ آزمائش۔ گمراہی۔ کُفْر۔
رسوائی۔ رنج، دیوانگی، عبرت، عذاب،
مرض، مال و اولاد، اختلاف آراء۔

جَنَبٌ وَجِلٌ کا واقع ہونا۔ ج۔ فِتْنٌ۔
الْفَتَاتُ۔ فتنہ انگیز۔ چور شیطان۔

الْفَتَاتَاتُ۔ چاندی و سونا۔

الْفَتَانَةُ۔ کسوٹی۔ مَوْنَتُ فِتَانٌ۔

الْفَتَانِيْنَ۔ پتھر پل زین کہ جس کے پتھر
پلے چلے ہوئے ہوں۔ ج۔ فُتْنٌ۔

ذَهَبٌ فِتْنِيْنٌ۔ جلا ہوا سونا۔
الْفَتِيْتُنُ۔ بڑھئی۔

الْمَفْتُونُ۔ م۔ مفع۔ دیوانہ۔ پاگل۔

فَتَا يَفْتُوْنُ (د) فُتُوًا۔ الرجلُ۔ سخاوت
اور جو امر دی میں غالب ہوا۔

فَتِي (د) فُتِي وَفُتِي تَفْتِيًا۔ جوان
ہونا۔

فُتِي تَفْتِيَةً وَتَفْتِي تَفْتِيًا۔ فُتِيَّتِ
الْبُسْتُ وَتَفْتِيَّتِ۔ پردہ نشینی کرنا۔

لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے روکنا۔
تَفْتِي الرجلُ۔ سخی ہونا۔ بتکلف

جوان بننا۔ کہا جاتا ہے "أَبْرَدُ مِنْ
شَيْخٍ يَتَفَتِي"۔

أَفْتِي افْتَاءً۔ فَلَانًا۔ فتویٰ دینا۔
فَاتِي۔ الرجلُ۔ جو امر دی میں غالب ہونا

فتویٰ پوچھنا۔

تَفَاتِي۔ صاحب سخاوت ہونا۔ جو امر دی
ظاہر کرنا۔ تَفَاتُوا إِلَى الْعَالِيَةِ۔

فتویٰ دریافت کرنے کے لیے عالم
کے پاس جانا۔

اسْتَفْتِي اسْتِفْتَاءً۔ الْعَالِيَةِ فِي
الْمَسْئَلَةِ۔ عالم سے فتویٰ طلب

کرنے۔

الْفَتَاءُ وَالْفُتُوَّةُ۔ جوانی۔ الْفُتُوَّةُ
سُخَاوَتُ۔ مروت۔ کرم۔

الْفُتُوِي وَالْفُتُوِي وَالْفُتِيَا۔ شرعی
مسائل میں ماہر شریعت کا فیصلہ۔ ج۔

الْفَتَاوِي وَالْفَتَاوِي۔
الْفَتِي۔ نوجوان سخی۔ غلام۔ اس کا تنبیہ

فُتَوَانٌ وَفُتِيَانٌ۔ ج۔ فُتِيَانٌ وَ
فُتِيَّةٌ وَفُتُوَّةٌ وَفُتُوٌ وَفُتِيٌّ وَ
فُتِيٌّ۔

الْفُتِيَانُ۔ دن اور رات۔

الْفَتَاةُ۔ نوجوان عورت۔ باندی۔ ج۔
فُتِيَاتٌ وَفُتَوَاتٌ۔

الْفُتِيُّ۔ بر طاقور جوان۔ ج۔ فُتَاءٌ وَفُتَاءٌ
مَوْنَتُ فُتِيَّةٌ۔

الْمُفْتِيُّ۔ فَا۔ ماہر علم فقہ۔ جو مسائل کا جواب
دے سکے۔ وہ آدمی جو فتویٰ دینے کے

لیے مقرر کیا جائے۔

فُتْنُ (د) فُتْنًا۔ الْقَفَّةُ۔ ٹوکری سے
بکھرنا۔ الْحَارُّ بِالْبَارِدِ۔ ٹھنڈا کر دینا۔

جوش کم کر دینا۔
الْفُتْنُ۔ الْعُودُ۔ لکڑی کا ٹوٹنا۔ الرجلُ

غم سے شکستہ دل ہونا۔ تَمَرُّقُوتٌ۔
متفرق کھجوریں۔

الْمَفْتَنَةُ۔ زیادتی۔ کثرت۔
فُتْنًا (د) فُتْنًا وَفُتُوًا۔ الْقَدَرُ۔ بڑی

کا جوش ٹھنڈا کرنا۔ الْعَصَبُ۔ غصہ
کی تیزی کم کرنا۔ الشَّيْءُ عِنْدَهُ۔ روکنا۔

أَفْتَنًا۔ ٹھنڈا۔ سُسْتُ ہونا۔ بِالْمَكَانِ۔
اقامت کرنا۔

الْفُتْنَاءُ۔ الْحَرُّ گرمی کا کم ہونا۔
فُتْبَجَ وَافْتُبَجَ۔ الشَّيْءُ کم کرنا۔ الْمَاءُ

الْحَارُّ بِالْبَارِدِ۔ ٹھنڈے پانی سے
پانی کی گرمی کا کم کرنا۔

فُتْبَجَ وَافْتُبَجَ وَافْتُبَجَ۔ بوجھل ہونا۔ کہا
جاتا ہے "فُلَانٌ بِحُرٍّ لَا يُفْتُبَجُ"۔

فلاں سمندر ناپیدا کنا رہے۔
الْفَاتِيحُ۔ فَا۔ حاملہ اونٹنی۔ ج۔ فُتَاوَاتُ

الْفَاتُوَرُ۔ سنگ رخام کی میز۔ آفتاب کی
ٹکیہ۔ فرش، بڑا پیالہ، شراب کا برتن۔

باسوس۔
فُتْعَرَفٌ، فُتْعَا۔ راسُہ۔ پھوڑنا۔



فَجَرَدَن (فَجَا) - القوس۔ کمان کھینچنا۔ فَجْرٌ
مَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ۔ دونوں پیروں کو کشادہ
دبید کرنا۔ فَجَّتِ النَّاقَةُ لِلْحَلْبِ۔
اونٹنی کا دو بطن میں ٹانگیں پھیلانا۔
فَجَّرَ (دس) فَجَجًا۔ چلنے میں ٹانگوں کے
درمیان کشادہ ہونا۔ مَفَّتِ أَفْجَرُ۔
مؤنث فَجَاءُ۔ جر۔ فُجِّرَ۔
أَفْجَرُ۔ مَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ۔ کشادہ و دبید
کرنا۔ مَفَّتِ مَفْجَرٌ۔ أَفْجَرُ فِي
الشَّمْسِ۔ جلدی چلنا۔ أَفْجَرُ الْأَرْضِ
بِالْمَحَارِثِ۔ ہل چلانا۔
تَفَجَّرَ۔ ٹانگیں پھیلا کر چلنا۔
الْفُجَّجَتِ - القوس۔ کمان کا کھینچ جانا۔
الْفُتَجَّةُ۔ الرجل۔ درہ کوہ میں چلنا۔
الفَجْرُ۔ درہ۔ دو پہاڑوں کے درمیان
کشادہ راستہ۔ جر۔ فُجَّجَ۔
الْفُجَّجُ۔ درہ۔ دو پہاڑوں کے درمیان
کشادہ راستہ۔
الْوَفِجُّ وَالْفُجَّاجَةُ۔ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَ
غَيْرِهَا۔ کچا میوہ وغیرہ۔
الْفُجَّةُ۔ دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی۔
کہا جاتا ہے۔ "فَلَانٌ يَمْشِي (مُفَاجًا)،
یعنی فلاں ٹانگیں پھیلا کر چلتا ہے۔
الْإِفْجِجُ۔ وسیع وادی۔ تنگ اور گہری
وادی۔
الْفُجْجِيُّ۔ ایسے کابل و سست لوگ کہ جن کی
صحبت کو نا پسند کیا جائے۔
فَجَّادَف، وَفَجَّي (دس) فَجَّاءُ وَفَجَّاءَةٌ وَ
فُجَّاءَةٌ وَفَجَّاءٌ مُفَاجَأَةٌ وَفُجَّجًا
لِافْتِجَاءِ - الرجل۔ اچانک آ جانا۔
جلدی کرنا۔
الْفَجَّاءَةُ۔ مم۔ اچانک حرف (المفاجأة)،
لفظ اذ ہے۔ جیسے تَحَرَّجْتُ فَإِذَا
الرَّسَدُ بِالْبَابِ۔ اور اس کو اذ
"الْفَجَّائِيَّةُ" بھی کہا جاتا ہے۔

فَجَرَدَن فَجْرًا - الماء۔ پانی بہانا۔ جاری
کرنا۔ الفَتَاةُ - نالی نکالنا۔ اللَّهُ
الْفَجْرُ - اللہ کا صبح کر دینا۔ فَلَانًا
بھٹلانا۔ نا فرمانی کرنا۔ مخالفت کرنا۔
فَجَرَدَن، فُجُورًا - عَنِ الْحَقِّ۔ تجاوز
کرنا۔ عَنِ سُرْجِهِ۔ زین سے ایک
طرف کو جھک جانا۔
فَجَرَدَن، فُجْرًا وَفُجُورًا۔ جھوٹ بولنا۔
زنا کرنا۔ گناہ کرنا۔ کمزور نگاہ والا
ہونا۔ أَمْرُهُمْ۔ بگڑنا۔ خراب ہونا۔
- مِنْ مَرَضِهِ۔ صبح و تندرست ہونا۔
فَجَرَدَن (دس) فُجْرًا۔ فیاضی و سخاوت کرنا۔
فَجْرٌ - الماء۔ پانی بہانا۔ جاری کرنا۔ تشدید
مبالغہ کے لیے ہے۔ فَجْرُ الرَّجُلِ۔
بدکاری کی طرف نسبت کرنا۔
فَاجِرٌ - فُجَّارًا وَفُجَّاجَةً - الْمَرْأَةُ۔
زنا کرنا۔
أَفْجَرُ۔ جھوٹ بولنا۔ زنا کرنا۔ کفر کرنا۔
حق سے تجاوز کرنا۔ فجر میں داخل ہونا۔
مال کثیر لانا۔ الْيَنْبُوعُ۔ چشمہ جاری
کرنا۔ فَلَانًا۔ فاجر پانا۔
الْفَجْرُ - عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ۔ دشمنوں کی
طرف سے بکثرت آ جانا۔ وَتَفَجَّرَ
الماءُ۔ پانی کا جاری ہونا۔ الصُّبْحُ۔
صبح کا روشن ہونا۔ بِالْعَطَاءِ۔ فیاضی
کرنا۔ لَفَجْرَ عَنْهُ الدَّلِيلُ۔ رات کا
ختم ہونا۔
لَفْتَجَرُ۔ فِي الْكَلَامِ گھڑنا۔ بناوٹی بات
کہنا۔
تَفَاجَرُ - الْقَوْمُ گناہوں میں منہمک ہونا۔
الْفَجْرُ - بَشْش، عَطِي، بَهْلَال، مَال۔
کثرت مال۔
الْفَجْرُ - مَم۔ صبح کی روشنی۔ کہا جاتا ہے۔
"طَرِيقُ فُجْرٍ" یعنی کھلا ہوا صاف
راستہ۔

الْفَجْرَةُ - فَجْرًا اسم بمعنى ایک بار۔ کہا جاتا
ہے "رَكِبْتُ فَجْرَةً" وہ جھوٹ پر سوار
ہوا۔ یعنی جھوٹی بات بنائی۔ ایک بار۔ اور
یہ کلمہ تائید اور علمیت کی وجہ سے
غیر منصرف ہے۔
الْفَجْرَةُ - مِنَ الْوَادِي - وادی کا وہ
وسیع حصہ جس میں پانی بہ رہا ہو۔ جر۔
فُجْرٌ۔
الْفُجْرَةُ وَالْمُفَجَّرَةُ وَالْمُنْفَجَرُ - پانی
بننے کی جگہ۔ مُنْفَجَرُ الرَّمْلِ۔ ریگستان
میں جو راستہ ہو۔
فُجَّارٌ - الْفُجُورُ کا اسم ہے اور معروف ہے۔
جیسے حَكَمْتُ بَرَّةً وَاحْتَمَلْتُ فُجَّارٍ
اور عورت کے لیے بھی فُجَّارٌ بمعنی فَا جَرَّة
آتا ہے۔ اور صرف نداء ہی کی صورت
میں استعمال ہوتا ہے۔
الْفُجَّارُ - وہ کشادہ راستے جو دو پہاڑوں
کے درمیان ہوں۔
الْفَاجِرُ - فَا۔ زانی۔ گناہوں کا تابع دار۔
جادوگر۔ جر۔ فَا جُورُونَ وَفَجْرَةٌ وَ
فُجَّارٌ۔
الْفَاجِرَةُ - مؤنث فَا جَرُ کا۔ کہا جاتا ہے۔
يَبْنِي فَا جَرَةً۔ جھوٹی قسم۔
الْفُجُورُ - زانیہ۔ زانی، گناہوں میں منہمک
جر۔ فُجُورٌ۔
الْفَاجُورُ - زنا کار۔ گناہوں میں منہمک۔
فَجَسَّ (دس) فُجَّسًا۔ بکبر کرنا۔ شرارت گھڑنا۔
- فَلَانًا۔ غالب آنا۔
أَفْجَسَ۔ باطل پر فخر کرنا۔
تَفَجَّسَ - عَلَيْهِ۔ بکبر کرنا۔ بڑائی ظاہر
کرنا۔
فَجَعَلَهُ (دس) فُجَّعًا وَفُجَّعَةً۔ دردمند
کرنا۔ مصیبت زدہ بنانا۔ کہا جاتا ہے۔
"فُجَّعٌ فِي مَالِهِ وَبِمَالِهِ" اس کو
مال کی وجہ سے مصیبت لاحق ہوئی۔

أَفْجَعَتْهُ. المَصِيبَةُ: کسی شے کے گم ہونے سے مصیبت میں مبتلا ہونا۔
 تَفَجَّعَ. دردمند ہونا۔ اس کا صلہ لام ہے۔
 الْفَاجِعُ. فاج بڑا غم۔ جو انسان کو لاحق ہو۔
 جدائی کے کوئے کو بھی کہتے ہیں۔ اِمْرَأَةٌ
 فَاجِعَةٌ. دردمند عورت۔ رَجُلٌ
 (فَاجِعٌ وَمُتَفَجِّعٌ) دردمند مصیبت
 زدہ مرد۔ حسرت و افسوس کرنے
 والا مرد۔ مَوْتُ فَاجِعٌ وَفُجُوعٌ
 مصیبت لانے والی موت
 الْفَاجِعَةُ. مصیبت۔ ج. فَوَاجِعٌ.
 الْفَجِيعَةُ. مصیبت۔ ج. فَجَائِعٌ.
 فَجَلَّ (رَن) فَجَلًا وَفَجَلَّ (رَس) فَجَلًا
 - الشَّيْءُ. ڈھیلا اور موٹا ہونا۔
 فَجَلَّ. شے۔ چوڑا کرنا۔
 اِفْتَجَلَ. الامر۔ ایجاد کرنا۔
 الْفَاجِلُ. فاج بڑا کھیلنے والا۔
 الْفُجْلُ وَالْفُجْلُ. ایک ترکاری جس کو
 مولیٰ کہتے ہیں۔ واحد فُجْلَةٌ.
 الْفَجَّالُ. مولیٰ بیچنے والا۔
 الْاَفْجَلُ. وہ شخص جس کے دونوں قدموں
 کے درمیان دوری ہو۔
 فِجْمَ (دَس) فِجْمًا. موٹا جڑے والا ہونا۔
 صفت اَفْجَمٌ.
 تَفَجَّمَ وَانْفَجَّمَ. الوَادِي. وادی کا
 کشادہ ہونا۔
 فُجْمَةُ الْوَادِي وَفُجْمَةُ الْوَادِي. وادی
 کی کشادہ جگہ۔
 اَفْجَنَ. سُداب کھانے کی مراد مت کرنا۔
 سُداب ایک نبات کا نام ہے۔
 الْفَيْجَنُ. سُداب (ایک قسم کی گھاس)،
 فَجَارَن) يَفْجُو فَجْوًا. الباب۔
 دروازہ کھولنا۔ الْقَوْسُ. تیر کمان
 کھینچنا۔
 فِجِي (دَس) يَفْجِي فَجًا. ہنڈلیں یا پیروں

کے درمیان دوری کرنا۔ صفت اَفْجِي
 مَوْنَتٌ فَجْوًا۔
 فِجِيَّةٌ. الْقَوْسُ. کمان کا کھنچا ہوا ہونا۔
 - النَّاَقَةُ. اونٹنی کا بڑے پیٹ
 والی ہونا۔
 تَفَاجَى. کشادہ جگہ ملنا۔
 اَلْفَجَى. الباب۔ دروازہ کھلنا۔
 الْقَدَمُ عَنْ فُلَانٍ. علیحدہ ہونا۔
 ہٹ جانا۔ الْقَوْسُ. کمان کا کھینچنا۔
 الْفَجْوَةُ. دو چیزوں کے درمیان کشادگی
 مکان کا میدان۔ صحن۔ کشادہ جگہ۔ ج.
 فَجَوَاتٌ وَفَجَاءٌ۔
 الْفَجْوَاءُ. مَوْنَتٌ اَفْجِي. کشادہ زمین۔
 فِجِي (دَس) يَفْجِي فِجِي. یعنی فی الوادی
 وادی کا کشادہ ہونا۔
 فِجِي تَفْجِيَةً. الشَّيْءُ. ظاہر کرنا۔
 الشَّيْءُ عَنْهُ. دور کرنا۔ علیحدہ کرنا۔
 اَفْجِي اِفْجَاءً. الرجلُ. بال بچوں پر
 خرچ میں وسعت کرنا۔
 فَجَّ (رَن) فَجًا وَفِجِيًا وَتَفْجَاخًا۔
 النَّارِثُ. سونے والے کا خراٹے
 لینا۔ الْاَفْجِي. سانپ کا پھنکارنا۔
 فَجَّهَ. الْفُلْفُلُ. مرچ کی تیزی۔
 الْفُجْجُ. پھنکارنے والے سانپ۔
 الْفَجِيجُ. مَص. فِجِيَّةُ الْاَفْجِي. سانپ
 کے منہ کی آواز۔
 فَجَّهَ (رَن) فَجَّجًا. تکبر کرنا۔
 فَجَّجَ (دَس) فَجَّجًا وَفِجْجَةً وَفَجَّجَ
 - فِي مَشْيِيَّتِهِ. قدم کے اگلے حصہ کو
 قریب اور اڑیوں کو دور کرنا۔ صفت
 اَفْجِجٌ. فَجَّجَ رَجُلٌ لِيَدِي. ٹانگوں
 کو پھیلانا۔
 اَفْجَجَ. عَنِ الْاَمْرِ. ہٹ جانا۔
 تَفْجَجَ. الرجلُ. ٹانگوں کو پھیلانا۔
 اِنْفَجَجَتْ. سَاقَاكَ. کشادہ و بچید ہونا۔

فَحَسَّ (رَن) فَحَسًا. الشَّيْءُ مِنَ الْمَاءِ
 وغیرہ۔ ہاتھ میں لے کر زبان سے چاٹنا
 جو کو ہاتھ سے ملنا۔
 تَفَحَّحَسَ. فِي مَشْيِيَّتِهِ. ناز سے چلنا۔
 فَحَشَّ (رَن) فَحَشًا وَفَحَاشَةً. الامر۔
 بُرَا ہونا۔ فَحَشَتِ الْمَرْأَةُ. قبیح ہونا
 بوڑھی ہونا۔
 فَحَشَّ سَبَه. طعن و تشنیع کرنا۔
 اَفْحَشَ وَتَفَاحَشَ. بری بات کہنا۔ بری
 بات کرنا۔ اَفْحَشَ الرَّجُلُ. بخل
 کرنا۔ تَفَاحَشَ الْاَمْرُ. قباحت
 میں زیادہ ہونا۔
 تَفَحَّشَ. عَلَيْهِمْ بِلْسَانِيهِ. بدکلامی کرنا
 گالی دینا۔
 الْفَاحِشُ. قبیح۔ بذلق۔ بہت بخیل۔ ہر
 وہ چیز جو حد سے بڑھ جائے۔ کہا جاتا
 ہے "غَبْنُ فَاحِشٍ" جبکہ اتنا زیادہ
 نقصان ہو جائے جو عادت برداشت نہ
 کیا جاسکتا ہو۔ رَجُلٌ فَاحِشٌ. قول
 یا جواب میں حد سے گزرنے والا۔ مَوْنَتٌ
 فَاحِشَةٌ۔
 الْفَاحِشَةُ. زنا۔ بہت سخت۔ قبیح گناہ
 ج. فَوَاحِشٌ۔
 الْفَحْشَاءُ. زنا۔ بہت سخت قبیح گناہ۔
 الْفَحَّاشُ. فَاحِشٌ کا اسم مبالغہ مَوْنَتٌ
 فَحَّاشَةٌ۔
 الْفُحْشُ. مَص. قبیح قول یا فعل۔
 فَحَصَّ (رَن) فَحَصًا. عَنْهُ. تفتیش کرنا
 کھود کر دیکرنا۔ الْمَطَرُ الْاَتْرَابُ۔
 بارش کا مٹی کو الٹ پلٹ کر دینا۔
 الْاَتْرَابُ. مٹی کھودنا۔ بِرَجْلَيْهِ
 پاؤں سے کھودنا۔ اَلطَّبْخِيُّ. ہرن کا
 تیز دوڑنا۔ الْخُبْرَةُ. روٹی کے لیے
 آگ میں جگہ بنانا۔
 فَاحَصَةٌ فَحَاَصًا وَمُفَاحَصَةٌ. ایک



دوسرے کے عیوب اور بھیدوں کی تلاش و جستجو کرنا۔

فَحَصَّةٌ وَأَفْحَصَةٌ - غنہ - دور کرنا۔

فَحَصَّصَ وَلَا فُتِحَ حَصٌّ - غنہ - کھود کرید کرنا۔

الفَحْصُ - پرچہ امتحان - ہر رہنے کی جگہ - جر - فُحُوصٌ -

الفَحْصَةُ - فحوص کا اسم مرہ۔

الفَحِیْصُ - ساتھی کے عیب اور بھید معلوم کرنے میں لگا رہنا۔

الفَحَّاصُ - بہت تلاش و جستجو کرنے والا۔ المَفْحَصُ - وہ گڑھا ہو سگوار نے اُنڈے

دینے کے لیے بنایا ہو - جر - مَفَاحِصُ - کہا جاتا ہے "لَیْسَ لَهُ مَفْحَصٌ قَطَاةٌ"

الْأَفْحِصُ - یعنی مَفْحَصُ - جر - آفَاحِیصُ - فُحْفَحَ - خراٹے لینا - آواز پڑ جانا۔

الفُحْفَاحُ - وہ شخص جس کی آواز بڑھگئی ہو - بہت بولنے والا - مَوْنُثُ فُحْفَاحَةٍ -

فَحَلَّ رَفٌّ، فَحَلًّا وَلَا فُتَحَلَّ - اِیْکَلُ فَحَلًّا کَوِیْمًا - عمدہ ساڑ جفتی کے لیے

ڈھونڈنا۔ تَفَحَّلَ - ساڑ کے مشابہ ہونا تَفَحَّلَ الشَّجَرُ -

درخت کا بے پھل ہونا۔ اِسْتَفْحَلَ - الامور بڑا ہونا اِسْتَفْحَلَتِ النَّحْلَةُ - درخت خرما کا نہر کجور

جیسا ہونا۔ الفَحْلُ - ساڑ - ہر حیوان کا نہر - جر - فُحُولٌ وَأَفْحُولٌ وَفَحَالٌ وَفَحَالَةٌ وَفُحُولَةٌ -

فُحُولُ الشَّعْرَاءِ - فضیلت رکھنے والے شعراء - بھوکرنے میں غالب ہونے والے شعراء -

الفَحْلُ وَالْفُحَالُ - نہر کجور - جر - فُحَا جِیْلٌ -

الفَحْلَةُ - مِنَ النِّسَاءِ - تیز زبان عورت - ایسے اخلاق والی جو جنس عورت کے

لائق نہ ہو۔ الفَحْلَةُ وَالْفُحُولَةُ وَالْفَحَالَةُ - مردانگی

الفَحِیْلُ - یعنی فحل - صاحب مردی - فَحْلٌ فَحِیْلٌ - شریف، نسیل مرد -

فَحْمَرٌ، فَحْمًا - جواب سے ساکت ہو جانا۔ فَحَمَّتْ دِنٌ، فُحُومًا - پانی ٹھیرنا۔

فَحْمَرٌ دَسٌ، دُفْحَمًا وَفَحْمًا وَفُحُومًا وَأُفْحَمَ - الصَّبِيُّ - بچہ کی آواز

روتے روتے بند ہو جانا۔ فُحْمَرٌ دِنٌ، فُحُومًا وَفُحُومَةً - کالا ہونا۔

فَحْمَرٌ - الشَّيْءُ - کالا کرنا۔ أَفْحَمَهُ - دلیل دے کر خاموش کرنا۔ کہا

جاتا ہے "هَاجَاكَ فَأَفْحَمَهُ وَوَجَدَهُ مُفْحَمًا" - یعنی وہ شعر کہنے پر قادر نہیں

اَفْحَمَ الرَّجُلُ - عشاء کے وقت کی تاریکی میں داخل ہونا - الرَّهْمُ -

الشَّاعِرُ - غم نے شعر کہنے سے منع کر دیا۔

الفَحْمُ وَالْفَحْمُ وَالْفَحِيمُ - کوئلہ۔ الفَحْمَةُ - کوئلہ کا ٹکڑا - اللَّیْلُ - سخت

تاریکی - جر - فَحَامٌ وَفُحُومٌ - الفُحُومَةُ - سیاہی -

الفَحَامُ - کوئلہ بیچنے والا - جر - فَحَامَةٌ - الفُحُومُ - جواب نہ دے سکنے والا۔

الفَاحِمُ - فَا - مَاءٌ فَاحِمٌ - ٹھہرا ہوا پانی - والفَحِیْمُ - کالا۔

المُفْحِمُ - فَا - جَوَابٌ مُفْحِمٌ - خاموش کر دینے والا جواب۔

المُفْحَمُ - مفعول - لا جواب شعر نہ کہہ سکنے والا۔

المُفْحَمَةُ - کوئلہ کی جگہ۔ فَحَارٌ، يَفْحُو فُحُوًّا وَفُحِيًّا - بکلام

میں

المی کذا - اپنے کلام سے کسی مضمون کی طرف اشارہ کرنا۔

الفَحَا وَالْفَحِي - مسالہ یا خشک مسالہ - جر - أَفْحَاءٌ -

الفُحُولُ وَالْفُحُوءُ وَالْفُحُوءُ - مِنَ الْكَلَامِ مضمون کلام - جر - فُحَاوٌ -

فَحَّتْ رَضٌ، فُحًا وَفُحَةً وَفُحَخًا - رَجُلًا - ٹانگوں کا کمزور ہونا۔ صفت

أَفْحَمَ مَوْنُثُ فُحَاوٌ - جر - فُحٌ - فَحَمَ دِنٌ، فُحَا وَفُحِيًّا وَفُحْتَمَ -

النَّاسُ - خراٹے لینا۔ فَحَّتِ الْأَفْعَلُ - سانپ کا پھنکارنا۔

الرَّائِحَةُ - خوشبو کا بھڑکنا۔ الفَحْمُ - جال - جر - فُحَاخٌ وَفُحُومٌ -

کہا جاتا ہے "وَتَبَّ فُلَانٌ مِنْ فُحْمَةِ الشَّيْطَانِ" - یعنی گناہ سے توبہ کر لی۔

الْفَحْلَةُ - خراٹے لینے والے کی نیند - گندی عورت -

فَحَّتْ رَفٌّ، فُحْتًا - السَّقْفُ - چھت میں سوراخ کرنا - رَاسُهُ بِالسَّقْفِ -

سر پر تلوار مارنا - الشَّيْءُ - کاٹنا -

الْإِنَاءُ - برتن کھولنا - الرَّجُلُ - بھوٹ بولنا۔

فَحْنَتٌ - الْفَاحْتَةُ - فَاخَةٌ كَاكُو كُرَا تَفَحَّتْ - فَاخَةٌ كِي چال چلنا - تعجب کرنا۔

رَافَحَتٌ - السَّقْفُ - چھت کا سوراخ والا ہونا۔

الْفَحْتُ - مَم - جال چھت میں گول سوراخ چاند کی روشنی یا چاند کا سایہ۔

الْفَاحْتَةُ - ایک پرندہ کا نام - جر - فُحَاخَتٌ فَخَجَ رَفٌّ، فُخَجَا - الرَّجُلُ - بکھر کرنا۔

- فُلَانًا وَبِهِ - ڈینگ مارنا - بڑائی ظاہر کرنا۔

فُخَجَ دَسٌ، فُخَجَا - جادو دانوں والا ہونا صفت اَفْخِجُ -

ج۔ فِدَارُ۔ قوم سے علیحدہ رہنے والا اور



الفَذْر - چاندی، موٹا لڑکا۔
 الفاذِر - پکا ہوا ٹھنڈا گوشت، پہاڑی کبرا۔
 علیہ رہنے والی اونٹنی۔ جر۔ فذُر و
 قَوَادِرُ وفُذُورُ۔
 الفاذِرَةُ - فادر کا مونٹ۔ پہاڑ کی چوٹی
 پر بڑی چٹان۔
 البَفَذَرَةُ - بہت سے پہاڑی بکروں کے
 رہنے کی جگہ۔
 اَفْدَس - الرجل کسی کے گھربا دروازہ پر
 مکڑیوں کا ہونا۔
 الفُدُس - کڑی۔ جر۔ فَدَسَةٌ۔
 الفُیْدُس - مٹکا۔ بڑا گھڑا۔
 فَدَشْ دَن، فَدَشَا - کاسہ، سر پھوڑنا۔
 فَدَشْ دَن، فَدَشَا - دفع کرنا۔
 الفَدَشُ - کڑی۔
 فِدَع دَس، فِدَعَا - ٹیڑھے جوڑوں والا
 ہونا۔ صفت اَفْدَعُ، مُنْث فِدَعَا
 جر۔ فِدَعُ۔
 فَدَعَا دَن، فِدَعَا - کچلنا یا تھوڑا پھاڑنا۔
 فَدَعَا - ٹیڑھے جوڑوں والا کر دینا۔
 الفَدَعُ - ہاتھ یا پیروں کے جوڑوں میں کچی
 جوڑوں کی کچی۔
 الفَدَعَةُ - جوڑوں کی کچی کی جگہ۔
 فَدَعَا دَن، فِدَعَا - ٹوڑنا۔
 اَلْفَدَعُ - ٹوٹنا۔ الشَّيْءُ الْيَابِسُ
 نرم ہونا۔
 اَلْمَفْدَعُ - توڑنے کا آلہ۔ جر۔ مَفَادِعُ۔
 فَدَقْد فَدَقْدَا - آواز بلند کرنا۔ بھاگتے
 ہوئے دوڑنا۔
 اَلْقَدَقْد - سخت جگہ۔ بلند مکان گندی جگہ
 جنگل۔ جر۔ قَدَاوْدُ۔
 اَلْقَدَقْدُ وَالْقَدَقْدُ - سخت آواز والا۔
 بلند آواز والا۔ بہت زیادہ زمین کو
 روندنے والا۔
 فَدَك - القَطَن - روٹی دھننا۔

فَدَكَا - القَطَن - روٹی دھننا۔
 قَدَم دَم، قَدَمَا - اَلْاِبْرِيْق و عَلَي
 اَلْاِبْرِيْق - چھگل پر سر بند لگانا۔
 قَدَم دَك، قَدَمَا و قَدَامَا - بیوقوف
 ہونا۔
 قَدَم وَاَقْدَم - قَدَم اَلْاِنِيَّة - برتن پر
 سر پوش رکھنا۔
 الْقَدَم - کلام میں عاجز۔ بیوقوف۔ کم سمجھ۔
 گاڑھے خون والا۔ جر۔ قَدَام - گہرے
 سرخ رنگ والا۔ مُنْث قَدَمَا۔
 الْقَدَام وَالْقَدَامُ - جر۔ قَدَم وَالْقَدَامُ و
 الْقَدَامَا وَالْقَدَامُ - چھوٹی سی
 چھنی یا کپڑا جو لوٹے وغیرہ کے منہ پر
 باندھیں تاکہ جو کچھ اس میں سے صاف
 ہو جائے (اَلْقَدَام وَالْقَدَامَا)
 پھینکا ہوا نوٹ کے منہ پر باندھ دیں
 تاکہ کاٹ بند کے یا کھانہ کے۔
 اَلْمَقْدَمَات - قبضہ والے لوٹے۔ ٹکے۔
 قَدَن - اَلْاِبِل - اونٹ کو موٹا کرنا۔
 اَلْبِنَاء عمارت کو بلند کرنا۔ الثوب
 کپڑے کو سرخ رنگنا۔
 الْقَدَن - سرخ رنگ۔ بلند عمارت۔ جر
 اَفْدَانُ۔
 الْقَدَان وَالْقَدَانُ - بیوں کی جوڑی جو بیل
 میں جٹے ہوئے ہوں۔ جر۔ قَدَن و
 اَفْدَنَة و قَدَاوِين - الْقَدَان
 کھیتی۔ و فِي الْمَسَاحَةِ - چار سو مربع
 زمین۔
 اَلْقَادِن - وہ آلہ جس سے تعمیر کی درستگی کا
 امتحان کیا جاتا ہے۔ جر۔ فَوَادِنُ۔
 الْقَدَوَكْس - شیر۔ مضبوط مرد۔
 قَدَاي يَفْدِي دَم، قَدَاي و فِدَاي و
 فِدَاي - الرجل مِنَ الْاَسْرِ و نَحْوِه
 مال وغیرہ دے کر قید سے چھڑانا صفت
 اسم فاعل (فَادِ) صفت اسم مفعول

مَفْدِي (مَفْدِي) کہتے ہیں۔ قَدَاتِ الْمَرْأَةِ
 نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا - یعنی عورت
 نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھٹکارا
 حاصل کیا۔
 قَدَاي و قَدَاي تَفْدِيَةً - فُلَانَا
 بِنَفْسِهِ - اپنے متعلق کہنا کہ میں تم پر
 فدا کیا جاؤں۔
 قَادَاي فِدَا و مَفَادَا - الرجل۔
 فدیہ لے کر چھوڑنا یا فدیہ دیکر چھوڑنے
 کی طلب کرنا۔
 اَفْدَاي اَفْدَا - فُلَانَا الْاَسِيرُ - کسی سے
 قیدی کا فدیہ قبول کرنا۔ الرجل۔
 موٹا ہونا۔
 تَفَادَاي تَفَادَايَا - الْقَدَم - ایک دوسرے پر
 فدا ہونا۔ بعض کا بعض کے ذریعے سے
 بچنا۔ الرجل مِنْ كَذَا - پرہیز کرنا۔
 اور کیسو ہونا۔
 اِنْفَادَاي اِنْفَادَا - فدیہ دیا جانا۔
 اِفْتَدَاي - بلہ۔ فدیہ دینا۔ مِنْهُ بَكْذَا
 پرہیز کرنا۔ کہتے ہیں۔ اِفْتَدَاتِ الْمَرْأَةُ
 نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا - یعنی عورت نے
 مال دے کر طلاق لے لی، اور چھٹکارا
 حاصل کر لیا۔
 الْقَدَا - حُجْم۔ موٹاپا۔ ڈھیر، انبار۔ جو۔ گیہوں
 کھجور وغیرہ رکھنے کا برتن۔ تاجر کے
 سامان، غلے وغیرہ کی جگہ۔ جر۔ اَفْدِيَةً۔
 اَلْفِدَا و الْقَدَاي دَالْفِدَا - صم۔ وہ
 مال جو چھڑانے کے لیے دیا جائے۔ کہا
 جاتا ہے۔ قَدَاي لَكَ اَبْنِي و فِدَاكَ
 اَبْنِي - یعنی میں تمہارے اوپر اپنے باپ
 کو فدا کرتا ہوں اور اس جملہ سے دعاؤ
 اظہار محبت اور تعریف و توصیف کا
 ارادہ کرتے ہیں اور کبھی فعل محذوف
 ہوتا ہے اور صرف حرف باء کو باقی
 رکھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ يَا اَبْنِي التَّلْمِيْذُ

المجتهد یعنی میں اس پر اپنے باپ کو فدا کرتا ہوں۔
 الْيُدْيَةُ۔ وہ مال جو بچھڑانے کے لیے دیا جائے۔
 جہ۔ فِدْيٌ وَفِدَايَاتٌ۔
 قَدْكَ (ن) اَقْدَا۔ سختی سے دھتکار دینا۔
 اَقْدَيْتَ۔ الشَّاةُ۔ بکری کا ایک بچہ جننا۔
 صفت دُمِفْدٌ وَدُمِفْدَةٌ اور اگر یہی عادت ہو جائے۔ تو اس کو مِفْدَاذُ کہتے ہیں۔
 تَقْدَاذٌ وَاسْتَقْدَاذٌ۔ بالامر مستقل مزاج ہونا۔
 الْفَدَّ۔ مہر اکیلا۔ جوئے کے تیروں سے پہلا تیر۔ جہ۔ اَقْدَاذٌ وَفَدَّذٌ۔ اور کلمہ قَدْكَ وَفَدَاذٌ شاذ ہیں۔
 الْاَقْدُ۔ بے پر کا تیر کہا جاتا ہے۔ اَكَلْنَا قَدْ اَذَى وَفَدَّ اَذَى وَفَدَّ اَذَا وَفَدَّ اَذَا۔ یعنی ہم نے جدا جدا ہو کر کھایا۔
 فَذْ فَذْ فَذْ فَذْ۔ اچانک کودنے کے لیے سہٹنا۔
 فَذْ لَكَ فَذْ لَكَ۔ الْحِسَابُ۔ حساب سے فارغ ہونا۔ ٹوٹل لگانا۔
 الْفَذْ لَكَ۔ مہر۔ میزان کل۔ مفصل کا خلاصہ۔ حساب کا بویا کسی اور چیز کا۔
 فَرَّ رَضٍ، فَرَّ وَفَرَّاً وَفَرَّاً وَفَرَّاً۔ بھاگنا۔ دوڑنا۔
 فَرَّوْن، فَرَّاً وَفَرَّاً وَفَرَّاً وَفَرَّاً۔ الدابة۔ کسی جانور کی عمر معلوم کرنے کے لیے جانور کے دانتوں کو دیکھنا۔ اِلَى الشَّيْءِ۔ جانا۔ عَنِ الْأَمْرِ۔ کھود کر بیکرنا۔ کہا جاتا ہے۔
 ”فَرَّ الْأَمْرُ جَدًّا“۔ معاملہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آیا۔
 فَرَّ قَوْلُهُ۔ میں نے اس کے حال کی اور اس نے میرے حال کی تحقیق کی۔
 اَفَرَّ۔ اَفَرَّاً۔ دَاسَهُ بِالْمِثْقَالِ۔

سے سر بھاڑ دینا۔ اَفَرَّتِ الْخَيْلُ او الْاَيْلُ۔ اونٹ یا گھوڑے کے دودھ کے دانت کرنا۔ اَفَرَّهُ۔ بھگا دینا۔
 تَفَرَّ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے سے بھاگنا۔
 تَفَرَّرَ۔ بِالْشَيْءِ۔ ہنسنا۔
 اَفْتَرَّ۔ الْبَرَقُ۔ بجلی کا چمکنا۔ آہستہ آہستہ ہنسنا۔ الشَّيْءُ۔ سوگھنا۔
 الْفَرَّ۔ مہر۔ بھاگنے والا۔ واحد جمع اور مذکر مؤنث سب کے لیے یکساں مستعمل ہے۔ الْفَرُّ جمع فَرَّ کی ہے جیسے رَكْبٌ جمع رَاكِبٌ کی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ فَرٌّ قَوْمِهِ وَفَرٌّ تَهْمِهِ“ یعنی وہ اپنی قوم کا بہترین آدمی ہے۔
 الْفَرَّةُ وَالْفَرَّةُ وَالْفَرَّةُ۔ اختلاط شدت۔ مِنَ الْحَرِّ وَنَحْوِهِ۔ گرمی کی شدت اور اس کی ابتداء۔
 الْفَرَّةُ۔ مسکراہٹ۔
 اَلْفَرَّ۔ خوبصورت طریقہ سے ہنسنے والا اور مسکرانے والا جین و انتوں والا۔
 الْفَرَّاءُ وَالْفَرَّوُ وَالْفَرَّةُ وَالْفَرَّوَةُ تیز بھاگنے والا۔ الْفَرَّاءُ۔ پارہ۔
 جو کہ معدنیات میں سے ہے۔
 الْفَرَّوُ وَالْفَرَّيُّ وَالْفَرَّاءُ۔ بھڑ اور بکری کا بچہ۔ بعض نے بمعنی علان نقل کیا ہے وَالْفَرَّيُّ۔ منہ۔
 الْمَفَرُّ۔ بھاگنے کی جگہ۔
 اِلْمَفَرُّ۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ تیز گھوڑا۔ اور وہ گھوڑا جو بھاگنے وقت کام میں آوے۔
 الْفَرَّاءُ وَالْفَرَّاءُ۔ جنگلی گدھا۔ جہ۔ اَفَرَّاً وَفَرَّاً۔ اور اہل عرب کا قول۔
 ”كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْبِ الْفَرِّ“۔ بغیر ہزہ کے۔ مثل ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جس کی بہت سی حاجتیں ہوں اور ان میں سے بڑی حاجت پوری ہو جائے

اور اس مقصد کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ وہ باقی حاجتوں کے فوت ہو جانے کی پروا نہیں کرتا۔
 اَفَرَّ۔ فَرَّی۔ من گھڑت بڑا معاملہ۔
 قَرَّتْ دَن، قَرَّتَا۔ بدکار ہونا۔
 قَرَّتْ دَن، قَرَّتَا۔ المَاءُ۔ پانی کا خوشگوار ہونا۔ میٹھا ہونا۔
 قَرَّتْ دَس، قَرَّتَا۔ ضعیف العقل ہونا۔
 الْفَرَات۔ ایک بڑا دریا جو بحر فارس میں گرتا ہے عراق میں واقع ہے بہت میٹھا پانی۔ کہا جاتا ہے ”مَاءُ فَرَاتٍ وَ مِیَاةُ فَرَاتٍ“۔ الْفَرَاتُ۔ سمندر۔
 الْفَرَاتَانِ۔ دریائے فرات و دجلہ۔
 قَرَّتَكَ قَرَّتَكَ۔ چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔ الشَّيْءُ۔ ریزہ ریزہ کرنا۔
 الْعَمَلُ۔ فاسد کرنا۔ بگاڑنا۔
 قَرَّتَن قَرَّتَن۔ چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔
 قَرَّتَن دَن، قَرَّتَا۔ اِنْفَرَّتْ۔ الْحَبْلُ۔ حاملہ عورت کا جی تھلانا۔
 قَرَّتْ دَض، قَرَّتَا۔ کیداف۔ جگر پر مارنا۔
 قَرَّتْ دَس، قَرَّتَا۔ غم سیر ہونا۔ الْقَوْمُ۔ متفرق ہونا۔
 اَفَرَّتْ وَقَرَّتْ۔ الْكَوْشُ۔ اوجھ کو چیر کر اس سے گوشت نکالنا۔ الْحَبْثُ کید کا۔
 محبت کا جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔
 تَفَرَّتْ۔ الْقَوْمُ۔ متفرق ہونا۔ تَفَرَّتْ الْحَبْلُ۔ حاملہ عورت کا جی تھلانا۔
 الْفَرَّتْ۔ گوبر جب تک اوجھ میں رہے۔ جہ۔ قَرَّتْ۔
 الْفَرَّاشَةُ۔ اوجھ کا گوبر۔
 قَرَّبَ رَضٍ، قَرَّبَا وَفَرَّبَ۔ الشَّيْءُ۔ کھولنا۔ کشادہ کرنا۔ اَللَّهُ الْعَمَدَةُ غم کو دور کرنا۔ زائل کرنا۔
 اَفَرَّبَ۔ الْغُبَارُ۔ غبار کا دور ہونا۔ چھٹ

جانا۔ القوم عین المكان علیہ
ہونا۔ ہٹ جانا۔ اُفْرِجَتْ
الدُّجَاجَةُ۔ مرغی کا بچوں والی ہونا
صفت مُفْرِجٌ۔
تَفْرِجُ۔ الغم۔ غم کا دور ہونا۔
الْفَرْجُ۔ کھلنا۔ الغم۔ غم کا دور ہونا
- مَا بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ۔ کشادہ ہونا
- الرَّجُلُ مِنْ صَبِيْقِهِ۔ تنگی سے
نجات پانا۔ رہائی پانا۔
الْفَرْجُ۔ مص۔ دو چیزوں کے درمیان کا
فرج۔ سرمد۔ مِنَ الثَّوْبِ۔ کپڑے
کی پٹن۔ مِنَ الْإِنْسَانِ۔ شرمگاہ۔
یعنی قبل اور دُبر۔ دونوں پر اس کا
اطلاق ہوتا ہے۔ ج۔ فَرْوُجٌ۔ فَرْجٌ
السَّوَادَى۔ وادی کا درمیانی حصہ۔
فَرْجُ الْكَلْبِ۔ راستہ کا درمیانی حصہ
الْفَرْجُ وَالْفَرْجُ۔ تانٹ سے علیحدہ کمان
(- وَالْفَرْجُ وَالْفَرْجَةُ) صِنَ
الرِّجَالِ۔ بھید نہ چھپانے والا مرد۔
الْفَرْجُ۔ کشادگی۔
الْفَرْجَةُ۔ دو چیزوں کے درمیان کشادگی۔
ج۔ فَرْجٌ۔
الْفَرْجَةُ وَالْفَرْجَةُ وَالْفَرْجَةُ۔ سختی
اور غم سے نجات پانا۔
الْفَرْوُجُ۔ بچے کی قیص وہ تھا جس میں پیچھے
سے پھاڑا گیا ہو۔ ج۔ فَرْوُجٌ۔
ر۔ وَالْفَرْوُجُ۔ مرغی کے ہونے۔ ج۔
فَرْارِيْجٌ۔ واحد الْفَرْوُجَةُ۔
التَّفْرِجَةُ۔ دو انگلیوں یا دو کھمبوں کے
درمیان کا فاصلہ۔ ج۔ تَفَارِجٌ۔
التَّفَارِجَةُ۔ کمزور۔ بزدل۔ ج۔ تَفَارِيْجٌ
الْفَرِيْجُ۔ ظاہر کھلا ہوا۔ قَوْسٌ هَرِيْجٌ۔
تانٹ سے علیحدہ کمان۔
الْمُفْرِجُ۔ وہ مقتول جو جنگل میں پایا جائے
اور اس کا قاتل معلوم نہ ہو۔ وہ شخص

جس کے مال یا اولاد یا کوئی اور رشتہ
دار نہ ہو۔
الْمُفْرِجُ۔ کنگھی۔ وہ شخص جس کی کھنی
بغل سے دور ہو۔
الْفَرْجَارُ۔ پرکار۔ کہا جاتا ہے۔ "حَطَّ
فَرْجَارِيٌّ"۔ یعنی گول دائرہ۔
فَرْجَنٌ۔ فَرْجَنَةٌ۔ الدَّابَّةُ۔ جانور کو
کھریا کرنا۔ یعنی کھریے سے جانور
کو ملنا۔
الْفَرْجُونُ۔ کھریا۔
فَرْجٌ دس۔ فَرْجًا۔ بالشیء۔ خوش ہونا۔
اگرنا۔ صفت فَارِجٌ و فَرْجٌ۔
فَرْجَةٌ۔ خوش کرنا۔
أَفْرَحَهُ۔ خوش کرنا۔ الدِّينُ۔ بوجھل
کرنا۔ غلین کرنا۔ جیسے تم کہو "أَفْرَحْتَنِي"
الدُّنْيَا ثُمَّ أَفْرَحْتَنِي"۔ یعنی دنیا
نے مجھے خوش کیا پھر غلین بنا دیا۔ اس
میں ہمزہ سلب کے لیے ہے اس لیے
معنی سلب کے پائے جاتے ہیں۔
الْفَرْجُ۔ خوشی۔
الْفَرْجَةُ وَالْفَرْجَةُ۔ خوشی۔ خوشخبری
سنانے والے کا انعام۔ عوام اس
انعام کو صلوات اور بشارت بھی
کہتے ہیں۔
الْفَرْحَانُ۔ خوشی والا۔ مَوْنٌ فَرْحِيٌّ و
فَرْحَةٌ۔ ج۔ فَرْحِيٌّ و فَرْحِيٌّ۔
الْفَرْوُجُ۔ خوشی والا۔ ج۔ فَرْوُجٌ۔
الْمُفْرِجُ۔ مفع۔ فقیر محتاج گناہ
نسب والا۔
الْمُفْرَاجُ۔ بہت زیادہ خوش۔ مذکر و
مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے۔
الْمُفْرُوْجُ۔ مسرور جس پر خوشی کی جائے۔
فَرْجٌ دس۔ فَرْجًا۔ اِلَى الْأَرْضِ۔ چمٹنا
- الرَّجُلُ۔ گھبراہٹ دور ہونا۔
فَرْجٌ۔ القوم۔ کمزور ہونا۔ گھبرانا۔

فَرْحَتٌ۔ الطَّائِرَةُ۔ پرندہ کا بچوں
والا ہونا۔ صفت مُفْرِجٌ۔ الْبَيْضَةُ
انڈے کا بچہ سے جدا ہونا۔ فَرْجٌ
الشَّجَرُ۔ درخت کا پھوٹنا۔ الاَصْرُ
مشتبہ ہونے کے بعد انجام کا ظاہر ہو
جانا۔ الرَّوْعُ۔ خوف دور ہونا۔
أَفْرَجٌ۔ الرَّوْعُ۔ خوف دور ہونا۔ کہا
جاتا ہے۔ "أَفْرَجُ رَوْعَكَ"۔ یعنی
اپنی گھبراہٹ دور کرو اور اپنے دل
کو مطمئن کرو۔ أَفْرَحَتِ الْبَيْضَةُ
وَالطَّائِرَةُ۔ یعنی فَرْحَتٌ۔ أَفْرَجٌ
الاصْرُ۔ اشتباہ کے بعد انجام کا ظاہر
ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ "أَفْرَجَ الْقَوْمُ
بَيْضَتَهُمْ"۔ یعنی قوم نے اپنا بھید
ظاہر کر دیا۔
اسْتَفْرَجَ۔ الْحَمَامُ۔ کبوتری کو بچہ
نکلنے کے لیے لینا۔ الْحَمَامُ۔ کبوتری
کا بچہ والی ہونا۔
الْفَرْجُ۔ پرندہ کا بچہ بھوٹا پودہ یا حیوان۔
- مِنَ الشَّجَرِ۔ درخت کی جڑیں ہو
پودے نکل آتے ہیں۔ ج۔ فَرْأَخٌ و
أَفْرَآخٌ و أَفْرُجٌ و أَفْرُجَةٌ و
فَرْحَانٌ و فَرْوُجٌ۔ الْفَرْجُ۔
کمزور۔ ذلیل۔ دھتکارا ہوا آدمی۔
فَرْجُ الرَّاسِ۔ دماغ۔
الْفَرْجَةُ۔ پرندہ کا مادہ بچہ۔ ج۔ فَرْأَخٌ۔
چوڑی نوک والا نیزہ۔
الْمُفْرِجُ۔ بچہ نکلنے کی جگہ۔ ج۔ مَفَارِجٌ۔
فَرْدَن، و فَرْدَن، و فَرْدَن، و فَرْدَن،
فَرْوَدًا و فَرْوَدًا۔ اکیلا ہونا۔
بالامید۔ تنہا کام کرنا۔ فَرْدٌ عَيْنُ
الشيءِ۔ علیحدہ ہونا۔
فَرْدٌ۔ لوگوں سے جدا ہونا۔ فقیہ ہونا۔
بِرَأْيِهِ۔ رائے میں اکیلا ہونا۔
أَفْرَدَ۔ الشيءِ۔ جدا کرنا۔ اِلَيْهِ رَسُوْلًا۔

قاصد بھیجنا۔ بالامر۔ تنہا کام کرنا۔
أَفْرَدْتُ الْأُنْثَىٰ - ایک بچہ جنمنا۔

صفت (مُفْرَدٌ)

تَفْرَدَ وَلْتَفْرَدَ وَاسْتَفْرَدَ - بالامر۔
کسی کام میں کیتا ہونا۔ بے نظیر ہونا۔ د
اِسْتَفْرَدَ - اکیلا پانا۔ ساتھیوں میں
سے نکال لینا۔ اَلْفَرْدِيَّةُ - کیتا کولینا۔
جس کا کوئی مثل و ثانی نہ ہو۔

اَلْفَارِدُ - فا۔ و اَلْفَرْدُ - بیل۔ فَارِدٌ کا
مؤنث اَلْفَارِدَةُ - بمعنی بکری، جو گھر
میں اکیلے رہ جائے۔ نَاقَةُ فَارِدَةٍ -
چراگاہ میں تنہا چرنے والی اونٹنی۔ ج
فَوَارِدُ۔

اَلْفَرْدُ - ایک۔ طاق۔ ج۔ فَرَادٌ۔ بے مثال
ج۔ اَفْرَادٌ و فَرَادِي - داڑھ کی
ایک جانب۔ ایک تلوے کی جوتی۔
ج۔ اَفْرَادٌ - کہا جاتا ہے۔ "هَذَا
شَيْءٌ فَرْدٌ" یہ منفرد چیز ہے۔
اَفْرَادُ النُّجُومِ و فُرُودُهَا - الگ الگ
طلوع ہونے والے ستارے۔ اَفْرَادُ
النَّاسِ - بڑے لوگ۔

اَلْفَرْدُ و اَلْفَرْدُ - ایک۔ کہا جاتا ہے۔
"هَذَا سَيْفٌ فَرْدٌ وَفَرْدٌ" یعنی یہ
بے مثال تلوار ہے اور شئی فَرْدٌ و
فَرْدٌ و فَرْدٌ و فَرْدٌ - یعنی یہ منفرد
چیز ہے۔

اَلْفَرْدَةُ - فرد کا مؤنث۔ ج۔ فَرَدَاتٌ
و اَفْرَادٌ و فَرْدٌ۔

اَلْفَرْدَانِ - ایک۔ کہا جاتا ہے۔ "شَيْءٌ
فَرْدَانٌ" یعنی منفرد چیز ہے۔ مؤنث
فَرْدِي - کہا جاتا ہے۔ "كَقِيَّتِهِ"
فَرْدِيْن - یعنی ہمارے ساتھ کوئی
نہیں تھا۔

اَلْفَرْدَةُ - تنہا جانے والا۔ کہا جاتا ہے۔
سَجَاؤُ اَفْرَادٍ و فَرَادٍ و فَرْدِي و

فَرَادٌ و فَرَادِي - یعنی وہ لوگ اکیلے
اکیلے آئے۔ واحد فَرْدٌ و فَرْدٌ و
فَرِيدٌ و فَرْدَانٌ۔

اَلْفَرِيدُ - ایک۔ کیتا۔ چھوٹا موتی جو سونے
اور بڑے موتیوں کے بیچ میں ہوں نفیس
موتی۔ جوہر۔ ج۔ فَرَايِدٌ۔

اَلْفَرِيدَةُ - مؤنث فرید۔ نفیس جوہر
ریڑھ کی بڑی کا دہ مرہ جو دم کی بڑی
سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ ج۔ فَرَايِدٌ۔
کہا جاتا ہے۔ "اقى بِالْفَرَايِدِ" یعنی
ایسے الفاظ جو فصاحت و بلاغت
اور عربی الاصل ہونے پر دلالت کریں۔
اَلْفَرَادُ - موتیوں کا بیچنے والا۔

اَلْمُفْرَدُ - مفرد۔ واحد۔ اور اس کا مقابل
جمع ہے۔ جنگلی بیل۔
اَلْمُفْرَدُ - مِنَ الدَّهَابِ - موتی لگا کر
جدا کیا ہوا۔

اَلْمُفْرَدُ - فا۔ کہا جاتا ہے۔ "رَأَيْتُ
مُفْرَدًا" وہ سوار جس کے پاس
اپنے اونٹ یا گھوڑے کے سوا کچھ نہ ہو
فَرْدَسَهُ فَرْدَسَةً - بچھاڑ دینا۔ زمین پر
پٹک دینا۔

اَلْفَرْدُوسُ - باغِ جنت، سرسبز وادی۔
مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہے۔
ج۔ فَرَادِيْسُ۔

فَرْدُوسُ النِّعَمِ - ایک جنت کا نام۔
اَلْفَرْدَسَةُ - مم۔ گنجائش۔

اَلْمُفْرَدِيسُ - فا۔ کشادہ سینہ والا۔
صَدْرُ مُفْرَدِيسٍ - کشادہ سینہ۔ کَرَمٌ
مُفْرَدِيسٌ - ٹھٹھی لگی ہوئی انگور کی بیل۔
فَرَزْدِيسٌ، فَرَزْدَا و اَفَرَزْدَا - اَلشَّيْءُ -
مِنْ تَحْيِيَةٍ - جدا کرنا۔ علیحدہ کرنا۔

و اَفَرَزَ الصَّيْدَ الصَّائِدَ - شکار کا
شکاری کو فریب سے مارنے کا موقعہ
دینا۔ فَلَانًا بَشِيًّا - خاص کرنا اور

کسی کو نزدیک نہ کرنا۔
فَرَزَ وَتَفَرَزَ - عَلَى بَرَأِيَةٍ - قطعی
حکم لگانا۔

فَارَزَ - شَرِيكُهُ - الگ کرنا۔
اِفْتَرَسَ - الامر۔ اپنے لوگوں کے مشورہ
کے بغیر فیصلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے اِفْتَرَسَ
أَمْرَهُ دُونَ أَهْلِ بَيْتِهِ - اس
نے اپنے معاملہ میں اپنے گھرانوں سے
مشورہ کیے بغیر فیصلہ کر لیا۔

تَفَارَسَ - اَلشَّرِيكَانِ الشَّرِيكَتَ - شرکت
کو فسخ کرنا۔

اَلْفَرَزُ - مم۔ دو پہاڑوں کے درمیان
کشادگی۔ دو ٹیلوں کے درمیان پست
زمین۔

اَلْفَرَزَةُ - سخت زمین میں شگاف۔
اَلْفَرَسُ - ٹیلہ کا راستہ۔ ساتھی کے لیے
علیحدہ کیا ہوا حصہ۔ ج۔ اَفْرَازٌ و فُرُوزٌ۔

اَلْفَرَزَةُ - جدا کی ہوئی چیز کا ایک حصہ۔
اَلْفَرَزَةُ - باری۔ فرصت۔ ٹیلہ کا راستہ۔
اَلْفَارِزُ - فا۔ کلام فَارِزٌ - صاف اور
واضح کلام۔ لِسَانٌ فَارِزٌ - فیصلہ
کن زبان۔

اَلْفَارِزَةُ - ریت میں جو راستہ ہو۔
اَلْاَفْرِيزُ - مِنَ الْحَارِطِ - دیوار کی کانٹ
ج۔ اَفَارِيْزٌ یہ کلمہ دخیل ہے،

اَلْفَرَزْدَقُ - وہ روٹی جو تود میں گر پڑے
روٹی کے ٹکڑے۔ گوندے ہوئے آٹے
کے پڑے۔ واحد فَرَزْدَقَةٌ - تغیر
فَرِيزِقٌ و فَرِيزِدٌ - ج۔ فَوَازِقُ
لیکن قیاس کے لحاظ سے فَوَازِدُ
آنی چاہیے۔

اَلْفَرَزُوقُ - ایک مشہور شاعر کا لقب ہے
جو کہ اہل بیت کی مدح کیا کرتا تھا۔
تَفَرَزَعَ - اَلْكَلاؤُ - گھاس کا جمع ہونا۔

اَلْفُرْزَعُ - بولہ۔




أَفْرَشَ - السَّيْفَ - تلوار کی دھار کو
 پتلا کرنا - الشَّجَرُ - درخت کا لمبی
 لمبی ٹہنی والا ہونا - عُنْدَهُ - علیحدہ ہونا۔
 دور ہونا - الرَّجُلُ - غیبت کرنا اور
 بری بات کہنا - المکان - زیادہ
 پروانوں والا ہونا - النِّشَاءُ لِلَّذِي يُجْ
 زَمِينَ پر ذبح کرنے کے لیے لٹاتا -
 الرَّجُلُ - بچھونے والا ہونا - عِنْدَهُ
 الموت - بمعنی ارفع -
 تَفَرَّشَ - الطَّائِرُ - پرندہ کا پھڑپھڑانا -
 اِفْتَرَشَ - ذَرَا عَيْلِهِ - زمین پر بازو پھیلا نا۔
 - الشَّيْءُ - روندنا - الطَّرِيقُ - چلنا -
 - الرَّجُلُ - پچھاڑنا - أَثَرُ خَلَاةٍ -
 پیچھا کرنا -
 اِفْتَرَشَ - عِرْصَةً - بے عزتی کرنا -
 الشَّجَّةُ الدِّمَاغُ - بغیر ٹوٹنے کے
 پھٹنا - المَالُ - غضب کرنا - الشَّيْءُ
 پھیلنا -
 الْفَرَشُ - مَم - بچھونا، کشادہ زمین، چھوٹے
 چھوٹے درخت - چھوٹی چھوٹی لکڑیاں
 چھوٹے چھوٹے اونٹ اور اس معنی
 کے لحاظ سے جمع نہیں - جھوٹ - کھیتی
 جبکہ اس کے تین پتے نکل آئیں - وہ
 جگہ جہاں بکثرت نباتات ہو - گائے
 بکری، جو صرف ذبح ہی کے قابل ہوں
 الْفَرِشَةُ - فرش کا اسم مرہ - بچھونا -
 الْفَرِشَةُ - بچھلنے کی ہیئت - کہا جاتا ہے
 "هُوَ حَسَنُ الْفَرِشَةِ" - یعنی وہ
 اچھی حالت میں بچھا ہوا ہے -
 الْفِرَاشُ - زمین پر خشک شدہ کیچڑ -
 مِنَ النَّبِيذِ - شراب کے بلبے - زب
 کے نیچے دوسرخ رگیں - دولوہ جس
 سے لگام باندھتے ہیں - مِنَ الرِّجَالِ
 بہت ہلکا پھلکا مرد -
 الْفِرَاشُ - بچھونا گھونسا - منہ کی جڑ میں

نہان کی جگہ - جہ - أَفْرِشَةً وَفَرُشَ -
 الْفَرَّاشُ - بہت بچھانے والا -
 الْفَرَّاشَةُ - پتلی بڑی یا پتلا ٹونا - تھوڑا
 پانی - مِنَ الْقُفْلِ - تانے کی جھڑ -
 کندھوں کا اٹھا ہوا حصہ - اور فَرَّاشُ
 الدماغ کا واحد ہے - اور فَرَّاشُ
 الدماغ ان پتلی پتلی بڑیوں کو کہتے ہیں
 کہ جو کھوپری تک پہنچتی ہیں -
 الْفَرَّاشَةُ - پروانہ - اچھی طبیعت کا
 مرد - کہا جاتا ہے "مَا هُوَ إِلَّا
 فَرَّاشَةٌ" - اور یہ حقارت اور خست
 کے لیے مثل ہے - جہ - فَرَّاشُ -
 الْفَرِيشُ - مِنَ النَّبَاتِ - زمین پر پھیلی
 ہوئی بیل - وہ گھوڑی جس نے حال ہی
 میں بچہ دیا ہو - جہ - فَرَّاشُ -
 الْفَرَّاشُ - بچھونا -
 الْفَرَّاشَةُ - کجاوہ پر بچھانے کا چھوٹا سا
 بچھونا - جہ - مَفَارِشُ -
 الْمَفَرِشُ - مَم - کہا جاتا ہے "حَمَلٌ
 مَفَرِشٌ" - بغیر کومان کا اونٹ -
 فَرَشَ فَرَشَةً وَفَرَشَ - ٹانگیں
 کشادہ کرنا - ڈھیلے طریقہ سے رانوں کو
 زمین سے ملا کر بیٹھنا - ٹانگیں ملا کر
 کودنا -
 الْفَرِشَاخُ - بے بارش کا بادل - وہ عورت
 جو بہت موٹی ہو - چوڑا کھر -
 فَرَصَ (ن) - فَرَصًا - الشَّيْءُ - کاٹنا - چیرنا
 پھاڑنا - الْفَرِصَةُ - فرصت پانا -
 فَرَصَ (ض) - فَرَصًا - الرَّجُلُ - رگ گلو
 پر مارنا - شانہ کے گوشت پر مارنا -
 فَرِصَ - فَرَصًا وَفَرَصًا - شانہ کے گوشت
 میں درد ہونا -
 فَرَصَ - النَّعْلُ - جوتے پر لوہے کی
 نوک سے نقش کرنا -
 فَارَصَهُ مَفَارِصَةً - فِي الشَّيْءِ - زب

بہ نسبت کرنا -
 الْفَرِصَةُ - الْفَرِصَةُ - فرصت ملنا -
 أَفْرَصَ وَتَفَرَّصَ - الْفَرِصَةُ - مُلَّتْ
 پانا -
 تَفَارَصَ - الْقَوْمُ الْبِئْرَ - قوم کا کنویں پر
 باری باری آنا -
 اِفْتَرَصَ - الْفَرِصَةُ - موقع پانا - فرصت
 کو غنیمت جانا - کہا جاتا ہے "فَلَانٌ
 لَا يُفْتَرِصُ إِحْسَانَهُ وَبِرَّكَ" -
 یعنی فوت ہونے کا خوف نہیں کیا جا -
 الْفَرِصَةُ - باری - اور یہ اسم ہے -
 تَفَارَصَ - الْقَوْمُ الْبِئْرَ - کہا جاتا ہے
 "جَاءَتْ فَارَصَتُكَ مِنَ السَّقَى" -
 یعنی تمہاری باری آئی - وقت مناسب
 انتہز الْفَرِصَةَ - فرصت کو غنیمت
 جانا - جہ - فَرَصَ -
 الْفَرِصَةُ وَالْفَرِصَةُ وَالْفَرِصَةُ - اُون یا
 روٹی کا ٹکڑا -
 الْفَرِیْصُ - پانی کا شریک - جیسے کہتے ہیں -
 "هُوَ فَرِیْصِي" - اور یا گلے کی رگیں،
 واحد - فَرِیْصَةٌ -
 الْفَرِیْصَةُ - باری - پہلو اور مونڈھے - یا
 پستان اور مونڈھے کے درمیان کا
 گوشت جو خوف کے وقت اُچھلنے
 لگتا ہے - کہا جاتا ہے "إِذَا تَعَدَّتْ
 فَرِیْصَتُهُ" - یعنی بہت گھبرایا - "هُوَ
 صَحْحُ الْفَرِیْصَةِ" - یعنی وہ جری و
 بہادر ہے - جہ - فَرِیْصُ وَفَرِیْصُ -
 الْمَفْرِصُ - جہ - مَفَارِصُ - وَالْمَفْرِصُ
 جہ - مَفَارِیْصُ - لوبایا چاندی کا ٹٹے
 کی قینچی -
 الْفَرِصَادُ - سرخ رنگ - توت یا توت کا
 درخت دو الْفَرِصَدُ وَالْفَرِصِيدُ
 انگور کے بیج -
 فَرَصَ (ض) - فَرَصًا - الْحَشْبَةُ وَفِیْهَا -



لکڑی کا ٹنہ پھیرنا۔ الامر۔ فرض کرنا
معین کرنا۔ کہ کذا فی الدنیا یوان
خطبہ دینا۔ تنخواہ مقرر کرنا۔ یفلان
کذا۔ فرض مقرر کرنا۔ کہ۔ وقت
مقرر کرنا۔ اللہ الاحکام علی
عبادہ۔ واجب ٹھہرانا۔
فَرْضٌ (من) وَقَرَضْتُ (ک) فَرَضًا
وَقَرَضْتُ۔ البقرة۔ گائے کا عمر
رسیدہ ہونا۔ صفت (فارض)
فَرْضٌ (ک) قَرَضْتُ علم فرائض کا جاننے
والا۔ اور پھر ہونا۔
فَرْضٌ۔ الکشف۔ لکڑی میں سوراخ کرنا
۔ الامر۔ واجب کرنا۔
أَفْرَضَ۔ فلاناً شیعاً۔ دینا۔ یفلان
کذا۔ فرض قرار دینا۔ أَفْرَضْتُ۔
المایشین۔ نصاب کو پہنچنا۔ زکوٰۃ
کے قابل ہونا۔
أَفْرَضَ۔ اللہ الاحکام علی عبادہ۔
واجب ٹھہرانا۔ القوم۔ قوم کا
ختم ہو جانا۔ الجند۔ فوج کا
تنخواہ لینا۔
الْفَرْضُ۔ مص۔ من القویں۔ چلہ کمان
کی جگہ۔ جر۔ فَرَأَيْضُ۔ الفَرْضُ۔
اللہ کا بندوں پر مقرر کیا ہوا قانون۔
اپنے اوپر لازم کی ہوئی چیز۔ علیہ
تنخواہ۔ تنخواہ دار فوج۔ جر۔ فَرُوضُ
وفرائض۔ الفروض۔ نصرانیوں کے
عرف میں وہ فرض نماز جو وقت معین پر
ادا کی جائے۔ کتاب الفرض۔ وہ
کتاب جس میں فرض نمازوں کا بیان ہو۔
الْفَرْضُ۔ کٹی۔
الْفَرْضَةُ۔ من التهر۔ دریا کا دامن۔ وہ
لکڑی جس میں دروازہ کی چول ہو۔
من البحر۔ بندگاہ۔ من القویں
کمان کا سرا جو تانت لگانے کے لیے



کاٹا جائے۔ من الدواق۔ دوات
میں سیاہی کی جگہ۔ فَرْضَةُ الْجَبَلِ
پہاڑ کے وسط میں بہت جگہ۔ جر
فَرْضٌ وفرائض۔
الفراض۔ کپڑا۔ دریا کا دامن۔
الفراض۔ فا۔ موٹا۔ پرانا۔ جر۔ فَرْضٌ۔
مؤنث فَرْضَةٌ۔ جر۔ فَرْضَاتُ۔
وفوائض۔ والفرائض والفرضی
والفراض، علم فرائض کا جاننے والا۔
الفرضیۃ۔ فرض۔ زکوٰۃ۔ مقرر کردہ حصہ
جر۔ فَرَأَيْضُ۔ عِلْمُ الْفَرَأَيْضُ۔ وہ
علم جس میں وارثین کے حصص بیان کیے
جائیں۔ أَصْحَابُ الْفَرَأَيْضُ۔ وہ
ورثاء جن کے حصے مقرر ہوں۔
الْمَفْرُوضُ وَالْمَفْرَاضُ۔ کاٹنے کا اوزار۔
الْمَفْرُوضُ۔ منع۔ اللہ کا حکم جو بندوں پر
واجب ہو۔ کاٹا ہوا۔ محدود۔
فَرَطٌ (ن) فَرُوطًا۔ آگے بڑھنا۔ مقدم
ہونا۔ فَرَطًا۔ فی الامر۔ کوتاہی
کرنا۔ مِنْهُ قَوْلٌ بغیر سمجھ بوجھ
کنا۔ مِنْهُ شَيْءٌ۔ جاتا رہنا۔
علیہ فی القول۔ پیش دستی کرنا اور
حد سے گذرنا۔ علی فلان۔ جلدی
کرنا۔ تکلیف دینا۔ فَرَطٌ۔ غالب
ہونا۔ فَرَطٌ إِلَیْهِ رَسُولًا۔ قاصد
روانہ کرنا اور جلدی کرنا۔ وَكَذَا۔
چھوٹا بچہ مرنا۔
فَرَطٌ (ن) فَرُوطًا وَفَرَاطَةً۔
القوم۔ گھاس پانی کی طرف قوم سے
پہلے جانا۔ صفت فَرِطٌ۔ جر۔ فَرِطُونَ
وَفَرِطًا۔
فَرَطٌ۔ الشیءُ وَفِی الشیءُ۔ ضائع کرنا۔
متفرق کرنا۔ فی الشیء۔ کوتاہی کرنا۔
عاجزی کرنا۔ فَرَطٌ۔ چھوڑ دینا۔
آگے بڑھ جانا۔ مدح کرنا یا سبھ کرنا۔

اور حد سے گذرنا۔ فَرَطٌ عَنْهُ۔ مہلت
دینا۔ رکتا۔ إِلَیْهِ رَسُولًا۔ قاصد بھیجنا
فَرَطَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَكُودُ۔ دور کرنا۔
ہٹانا۔ دفع کرنا۔
أَفْرَطَ۔ زیادتی یا کمال کے لحاظ سے حد سے
بڑھ جانا۔ جلدی کرنا۔ رَسُولًا۔
قاصد بھیجنا۔ الامر۔ بھولنا اور
چھوڑنا۔ الاناء۔ برتن کو بالب بھرنی
۔ بیدار۔ إِلَى السَّيْفِ لِيَسْتَلْهُ۔
تلوار کھینچنے میں جلدی کرنا۔ عَلَى الرَّجْلِ
طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔ فَلَانٌ
وَلَدًا۔ نابالغ بچہ کا وفات پا جانا۔
الشیء۔ بھولنا۔ چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے۔
"مَا أَفْرَطَ مِنْهُ أَحَدًا"۔ یعنی کسی
کو نہیں چھوڑا۔
فَارَطَهُ فَرَاطًا وَمَفَارِطَةً۔ سبقت
لے جانا۔ پالینا۔
تَفَرَّطَ۔ الشیءُ۔ وقت گذر جانا۔ الفرض
الخیل۔ گھوڑے کا سابق ہونا۔ آگے
بڑھ جانا۔
تَفَارَطَ۔ آگے بڑھنا۔ القوم۔ آگے
بڑھنے کی کوشش کرنا۔ الشیءُ۔ وقت
کا جاتا رہنا۔ کہا جاتا ہے۔ تَفَارَطَتِ
الصَّلَاةُ عَنْ وَقْتِهَا۔ نماز اپنے
وقت سے مؤخر ہو گئی۔ تَفَارَطَتْهُ
الهموم۔ غم کا لاحق ہونا۔
رَأْفَرَطَ۔ کھلنا۔
رَأْفَرَطَ۔ وَكَذَا۔ چھوٹے بچہ کا مرنا۔
إِلَیْهِ فِي الْأَمْرِ۔ آگے بڑھنا۔ سبقت
لے جانا۔ کہا جاتا ہے۔ فَلَانٌ لَا يُفْتَرِطُ
إِحْسَانُهُ۔ یعنی فلاں کے احسان
کے فوت ہونے کا خوف نہیں کیا جاتا۔
الْفَرَطُ۔ مص۔ افراط کا اسم ہے۔ ٹیکہ کا سرا۔
پہاڑ کی چوٹی۔ راستہ کا نشان۔ جر۔
أَفْرَطَ وَأَفْرَاطٌ۔ الفَرَطُ۔ وقت

کہا جاتا ہے۔ اَنْبَيْتَهُ فَرُطًا۔ اس کے پاس چند دن کے بعد آیا اور یہ پندرہ دن سے زائد اور تین دن سے کم نہیں ہوتا۔ دَايَتِيكَ فَرُطًا يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ یعنی ایک یا دو دن کے بعد آؤں گا۔ وَلَا تَقَاؤُا اِلَّا فِي الْفَرُطِ۔ یعنی چند ایام میں ایک مرتبہ ملوں گا۔

الْفَرُطُ۔ دامن کوہ۔ یہ واحد ہے۔ افراط الصباح۔ صبح کی پہلی شعاعیں۔ الْفَرُطُ۔ پانی کی طرف قوم سے آگے بڑھنے والا۔ اس میں واحد و جمع برابر ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ فَرُطٌ وَ قَوْمٌ فَرُطٌ۔ امداسی سے ہے۔ اَنَا فَرُطٌ عَلَى الْحَوْضِ الْفَرُطِ۔ پہلا پہنچا ہوا اجر۔ جلد بازی۔ وہ کام جس میں کوتاہی کی جائے۔ نابالغ بچہ۔ کہا جاتا ہے۔ سَبَقْتُ فَرُطًا كَثِيرًا۔ بہت سے نابالغ بچے مر گئے۔ اور بچہ کی میت کی دعائیں کہتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرُطًا۔ اے اللہ! اس کو ہمارے لیے آگے پہنچنے والا اجر بنادے۔

الْفَرُطُ۔ چھوڑا ہوا کام۔ حد سے گذرا ہوا۔ اسراف، ظلم و زیادتی۔ وہ تیز گھوڑا جو سارے گھوڑوں سے آگے بڑھ جائے۔

الْفَرُطَةُ وَالْفَرُطَةُ۔ نکلنا اور آگے بڑھنا۔ کہا جاتا ہے۔ هُوَذَا فَرُطَةٌ فِي الْبِلَادِ۔ یعنی بہت سفروں والا۔ الْفَرَاطَةُ۔ الْمَاءُ الْفَرَاطُ۔ وہ پانی جو چند قبیلوں کے درمیان مشترک ہو۔ اور جو اس تک پہلے پہنچ جائے۔ اسی کا ہو جائے۔ اسی طرح بِئْرُ فَرَاطَةٍ بھی کہا جاتا ہے یعنی مشترک کنواں۔

تَمَكَّمَ فَرَاطًا۔ یعنی بے سوچے سمجھے اس کی زبان سے کچھ کہنے نکلے۔

مُفَارِطٌ۔ الْبِلَادُ۔ اطراف بلاد۔

فَرُطٌ فَرُطًا۔ الشَّيْءُ۔ چھوڑا کرنا۔

رَأْسُ فَرُطًا۔ وَمُفَرِطٌ۔ چھوڑا کرنا۔

فَرُطَسٌ۔ الْخِزْيَرُ۔ فَرُطُو سِتَّةٌ وَ

فَرُطِي سِتَّةٌ۔ سُرور کا اپنی ناک کو

درا کرنا۔ جہ فَرَاطِيْسُ۔ الْفَرُطِيْسَةُ

ناک کا بانہ۔

الْفَرُطَا سُ۔ چوڑا۔

فَرُطٌ رَفٌّ، فَرُطًا وَفَرُطًا۔ الْجَبَلُ۔

پہاڑ پر چڑھنا۔ الْوَادِي۔ وادی

میں اترنا۔ الْارَضُ۔ زمین میں چکر

لگانا۔ الْقَوْمُ۔ قوم سے شرافت اور

خوبصورتی میں فائق ہونا۔ الْفَرُطُ

بِالْحِجَامِ۔ گھوڑے کو لگام کھینچ کر بھرانا

۔ رَأْسُهُ بِالْحَصَا۔ سر پر لٹکی مارنا

۔ يَكِينُ الْقَوْمِ۔ روک بن جانا۔ یا

اصلاح کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ هَذَا

أَوَّلُ صَبِيٍّ فَرَعَةٍ۔ یہ پہلا شکار

ہے جس کا خون گرایا۔

فَرِيعٌ دَسٌّ، فَرِيعًا۔ بہت بالوں والا ہونا

صفت مذکر اَفْرِعٌ مَوْنٌ فَرِيعًا

جہ۔ فَرِيعٌ۔

فَرِيعٌ فِي الْجَبَلِ۔ پہاڑ پر چڑھنا۔

مِنْ الْجَبَلِ۔ پہاڑ سے اترنا۔

بَيْنَهُمْ۔ تفریق کرنا۔ الْمَسَائِلُ

مِنْ هَذَا الْأَصْلِ۔ قاعدہ یا دلیل سے

فروعی مسائل کا نکالنا۔ فِي الْارَضِ۔

زمین میں چکر لگانا۔

اَفْرَعٌ۔ مِّنَ الْجَبَلِ۔ پہاڑ سے اترنا۔

بِالْقَوْمِ۔ قوم کے پاس اترنا۔

الشَّيْءُ۔ طویل و بلند ہونا۔ الْأَمْرُ

شروع کرنا۔ اللَّجَامُ الْفَرُطُ۔

گھوڑے کے منہ کو لہولہان کر دینا۔

اَفْرَعَتِ۔ الضَّبْعُ الْغَنَمِ اَوْ فِي الْغَنَمِ۔

بچہ کا بکریوں میں تباہی ڈالنا۔ اور ان

کو مار ڈالنا۔ الْاِبْلُ۔ اونٹنی کا پہلا

بچہ جننا۔ الْقَوْمُ مِنْ سَفَرٍ۔

سفر کی واپسی کے وقت سے پہلے واپس

آ جانا۔ الْارَضُ۔ زمین میں چکر لگانا۔

۔ الْفَرَعَةُ۔ پہلا بچہ ذبح کرنا۔

أَهْلَكَ۔ اپنے گھروالوں کی کفالت کرنا

۔ حَاجَتَهُ اَوْ سَفَرَهُ۔ کام یا سفر کا

شروع کرنا۔

اَفْرَعٌ۔ بِفُلَانٍ۔ پکڑا جانا اور قتل کیا جانا

فَارَعَهُ۔ کفایت کرنا۔ اور کسی کا بار اپنے

ذمہ لے لینا۔

اَفْرَعٌ۔ اَلْبَكْرَةُ۔ کنواری لڑکی کی بکارت

زائل کرنا۔

تَفَرَّعَ۔ الْقَوْمُ۔ گالی دینا۔ فائق ہونا۔

الشَّيْءُ۔ بلند ہونا۔ تَفَرَّعَتِ الرَّغَصَانُ

شہنیوں کا بہت ہونا اور ادھر ادھر

پھیلنا۔ تَفَرَّعَ الْمَسَائِلُ۔ مسائل کا

اصول سے متفرع ہونا۔ الشَّيْءُ عَلَى

الشَّيْءِ۔ مترتب ہونا۔ مبنی ہونا۔

اِسْتَفْرَعَ۔ الشَّيْءُ۔ شروع کرنا۔ الرَّجُلُ

پہلے بچہ کو ذبح کرنا۔

الْفَرِيعُ۔ مَصٌّ۔ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہر شے کا

اد پرکا حصہ جو چڑ سے نکلا ہو۔ جیسے

فَرِيعُ شَجَرَةٍ۔ درخت کی شاخ۔

منفعت بخش مال۔ الْفَرِيعُ فِي

الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ۔ مسائل قیاسیہ

یعنی وہ مسائل جو کسی دوسری چیز پر

مبنی ہوں اور اس پر ان کو قیاس کیا

گیا ہو۔ اس کے مقابل اصل ہے۔

فَرِيعُ الْمَرْأَةِ۔ عورت کے سر کے بال

چوٹی۔ فَرِيعُ الْقَوْمِ۔ شریف، سردار۔

الْأُذُنُ۔ کان کا اد پرکا حصہ۔ جہ

فُرُوعٌ دُ۔ الْفَرِيعُ، جَوِشٌ (فَرَعَةٌ)



ایک جوں اور فرخ جمع ہے۔ کہا جاتا ہے ”صَوَّبَهُ اَعْلٰی فَرَعٰی الْیَتْبٰہِ“ یعنی سرین کے اس حصہ پر مارا جو کہ بیٹھے میں زمین پر لگتا ہے۔

الفرع: گھاٹیوں کی طرف پانی بہنے کی جگہ۔
الفرع: اونٹ یا بکری کا پہلا بچہ۔ قُرْعَة
تقسیم۔ کہا جاتا ہے۔ "تَرَاصُّوا
بالفرع" یعنی تقسیم پر راہنی ہو گئے۔

الفرحۃ: راستہ کا بلند اور اوپر کا حصہ۔
 پہاڑ کی چوٹی۔ بحر۔ فراق۔ غ۔
 الطائر: غ۔ فاعل۔ ثوب بصورت۔ بلند۔ اس کی
 عند شہدۃ قتل ہے۔

الْفَارِغَةُ. فارغ كمنوت. فَاِذَا رَأَى
الْحِمْلَ بِهَا شَاكَ لِحَصْبِهِ. ج. فَوَارِغُ
وَالْفَارِغَةُ الطَّرِيقُ وَفَرَاغُهُ
رَأْسُهُ كَأَوَّلِهَا وَآخِرُ حَصْبِ

جس پر راستہ ختم ہو جائے۔
 المفسر: لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا۔
 ج۔ مقارنہ۔

المُفَرَّقُ ہر چیز کا طویل کہا جاتا ہے فَلَانَ
مُقَدَّمُ الْكُتُبِ یعنی فلاں شخص چوڑے
اور بلند منڈھے والا ہے۔

قَوْعَنْ قَوْمَةٍ - الرجل - تکر کرنا - مکرار
 فربی ہونا۔
 تَقَرَّبُوا - التَّمَات - گھاس کا بی اور قوی

ہونا۔ فلاں عَلَیْہَا سرکشی اور
زبردستی کرنا۔ فوجوں جیسے اخلاق
اختیار کرنا۔

ذَمُّهُ - خون کا ریشہاں جانا۔ یعنی بد لہ
 کا مطالبہ نہ کیا جانا۔ مِنْ الشَّيْءِ -
 تمام کرنا۔ الْقَطْرُ قُطْرًا - برتن کا خالی
 ہونا۔ فَرَّغَ فَرْغًا - علیہ المَاءِ -

پانی بہانا۔
 قَرَعَ (ن) قَرَعَ تَحْتَ بے چین ہونا۔ گھبرانا۔
 قَرَعَتِ الطَّعْنَةُ نیزے کے زخم
 کا چوڑا ہونا۔ صفت قَرِيعَةٌ۔

فَرِّخْ رَسْمِ خُذَاغًا۔ المَاءُ۔ پانی کا کرنا۔
 اَفْرِخْ وَفَرِّخْ۔ المَاءُ۔ پانی کا کرنا۔
 اِلْمَاءُ۔ برتن کو خالی کرنا۔ فَرِّخْ
 اِبْدِ مَاءَ۔ خون بہانا۔ کسا جاتا ہے۔

فَرَّخَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّبْرَ. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے۔ اَفْرَغَ الذَّهَبَ وَتَحَوَّلَ. سو نہ دھنوں کو کسی سانچہ میں ڈھال دیا۔

تفویج کام سے خانی بونا۔ ادا ہو کسی
کام میں اپنی پوری طاقت لگا دیتا۔ اور
پوری پوری کوشش کرنا۔

اِسْتَرْخَ - الماءَ اپنے اوپر پانی سنانا ۔
اِسْتَرْخَ - قے کرنا ۔ فُجْهُوَدَ كَا يَكْدَا ۔
پوری طاقت لگا دینا ۔

الْقَرْعُ: بہن کا وہ کٹارہ جس سے پانی گرایا جائے۔ کہا جاتا ہے: ”هَدِيَّةٌ كَطَعْنَةِ ذَاتِ قَرْعٍ“ یعنی یہ نیزے کا

زخم چو لڑا ہے تہیں سے خون بہہ رہا ہے
قحط زدہ زمین جہ فیروز
الفرخ بکسر الفاء۔ یہ بھی فدا کے معنی

میں ہے۔ کہا جاتا ہے: ”ذَهَبَ دَمْعٌ
فَوَدَّعَا وَفَدَّعَا“، یعنی اس کا خون
رائیگاں گیا۔

الفراغُ - بمعنی قارخہ۔
 الفراغُ - ڈول کا وہ کنارہ جس سے پانی
 گرایا جائے۔ برتن بڑا پیالہ۔ جانور کی

پیٹھ پر لے ہوئے بوجھ کا ایک طرف

کا حصہ۔ نیزے کا چوڑا حصہ۔ وہ جانند
جو چلتے وقت کشادہ قدم رکھے۔ ج۔
أَفْرَعَةٌ۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ فِرَاعٌ“
یعنی وہ تیز رفتار آدمی جس کے قدموں کا

درمیان فاصلہ وسیع ہو۔
لَقَدْ يَغْنُ - چوڑی ہموار زمین۔ گویا کہ وہ چوڑے
قدم رکھنے والے جانور کا راستہ ہے۔ ج
فَوَاغٍ - رَجُلٌ فَوَاغٍ - تیز زبان مرد۔

طَبِیْقٌ فَرِیْقٌ - کشادہ راستہ -
ضَرْبَةُ فَرِیْقٍ وَفَرِیْقَةٌ - تلواری کا
کشادہ زخم جس سے خون بہے -
الْفَرِیْقَةُ - فریقہ کا مؤنث۔ یہ بھی اسی کے

معنی میں ہے۔ پانی کا چھاگل۔
 الْفَرْغُ۔ فارغ۔ مَوْتُ فَرْغًا۔ طَعْنًا
 فَرْغًا۔ کشادہ زخم۔
 الْفَوْعَانُ۔ کشادہ برتن۔

دُرُہَمِ مُفَرَّغٌ وَ مُفَرَّغٌ سَاخِرٌ مِنْ دُھَلَا
 بوازد ہم جس پر شاہی نشان نہ ہو۔
 قُرْسٌ مُسْتَفْرَغٌ۔ انتہائی تیز دوڑنے

والا لکھوڑا۔
 الفرفرف۔ چکی پھسنے والی زمین۔
 فرفر۔ فرفری۔ تیز چلنا اور قدم قریب

قریب رکھنا۔ البعید۔ بدن کو جھاڑنا
- النجیل فی کلاویہ۔ کلام میں غلط ملط
اور زیادتی کرنا۔ الشیخ۔ جھاڑنا۔ حرکت

دینا۔ توڑنا۔ الذی یحب الشاة۔ ملوکے
ملوکے کرنا۔ الرجل غیبت کرنا۔ ابر
پر حمل کرنا۔ فلانہ کسی پر چلانا۔

الفَرْسُ اللِّجَامُ. لگام کو سر سے علیحدہ کرنے کے لیے حرکت دینا۔
الْفَرْفَرُ وَالْفَرْفَرُ. چڑیا۔

وہ شیر جو اپنے ہمسر ساحتی کو بھاڑ دے
بھیڑ یا بکری یا جھنگلی گائے کا بچہ۔ جوان لڑکا

الفُرافِرُ بیوقوف بہت بکواس کہنے

فرق

والا کہا جاتا ہے: الْفَرْقُ يُفَرِّقُ
الْجَمَاعَ فِي فَيْدِهِ لِكُلِّ مَرْتَبَةٍ
میں لگام کو ہلاتے رہنا۔

الْفَرْقُ - ایک درخت ہے جس کے پیالے
بنائے جاتے ہیں۔ اس کی لکڑی اس
قدر سخت ہوتی ہے کہ آگ میں بڑ کر
دیر تک جلتی رہتی ہے۔ جلدی سے خاکستر
نہیں ہوتی۔

الْفَرْقُ - وہ شیر جو اپنے ہمسرہ کو بھاڑ دے۔
فَرْقٌ رَنْ، فَرْقًا وَفَرْقًا - بَيْنَهُمَا
جدا کرنا۔ الْبَحْرُ - سمندر کا بھاڑ کر
دو حصے کر دینا۔ فَرْقًا، الشَّعْرُ
بالوں میں کنگھی کرنا۔ مانگ نکالنا۔

الطَّائِرُ - پرندہ کا بیٹ کرنا۔
فَرْقٌ (رَنْ)، فَرْوَقًا - لَهُ الطَّرِيقُ - راستہ
کا واضح ہونا۔ الْأَمْرُ لِفَرْقَانِ - ظاہر
واضح ہونا۔ فَرْقَتِ النَّاقَةُ - اونٹنی
کو دروازہ شروع ہونا۔ فَرْقٌ لَهُ
عَنِ الشَّيْءِ - ایک شے کو دوسری سے
ممتاز کر کے بیان کرنا۔

فَرْقٌ (رَنْ)، فَرْقًا - مِنْهُ - گھبرانا۔ کہا جاتا
ہے: "فَرْقٌ خَيْرٌ مِنْ حُبٍ" - یعنی
تیرا اس سے ڈرنا اور علیحدہ رہنا بہتر
ہے۔ اس سے کہ تو اس سے محبت کر
لے۔ الرَّجُلُ - موج میں داخل ہونا۔
أَفْرَقَ - الطَّائِرُ - پرندہ کا بیٹ کرنا۔
الطَّائِرُ - پرندہ سے بیٹ کرنا۔
الْمَرْيَضُ مِنَ مَرَضِهِ - مریض کا افقہ
پانا۔ تندرست ہونا۔ غَمَّةٌ بَكْرِيٌّ
کو ضائع کر دینا۔ کھودینا۔

فَرْقٌ تَفْرِيقًا وَتَفْرِيقَةً - الشَّيْءُ -
تقسیم کر کے جدا جدا کرنا۔ الرَّجُلُ -
خوف دلانا۔ شَعْرَةٌ بِالْمَشْطِ - کنگھی
سے بالوں کو جدا کر کے مانگ نکالنا۔
فَارَقَهُ فِرَاقًا وَفَارَقَهُ عَلَى كِيٍّ وَ

فرق

جدا بی اختیار کرنا۔
تَفَرَّقَ تَفَرُّقًا وَتَفَرُّقًا وَافْتَرَقَ وَ
تَفَارَقَ - ضد میں تجتمع و اجتمع
اور تجامع کی کہا جاتا ہے تَفَرَّقَتْ
بِحُجْمِ الطَّرِيقِ - یعنی ہر ایک ان میں
سے الگ الگ متفرق راستوں میں

چل دیا۔
الْفَرْقُ - عَنْهُمْ - جدا ہونا۔ لَهُ الطَّرِيقُ
راستہ کا واضح ہونا۔

الْفَرْقُ - مَم - سر کے بالوں کا درمیان راستہ
یعنی مانگ۔ کتان۔

الْفَرْقُ - بِالْكَسْرِ - بچوں کی ٹولی۔ جماعت،
گروہ۔ الْقِسْمُ - یعنی ہر چیز کا تقسیم
میں آیا ہوا حصہ۔ الْفَرْقُ مِنَ الشَّيْءِ -
کسی چیز کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا۔ الْفَرْقُ
ٹیلہ، موج بکری وغیرہ کا ریوڑ۔

الْفَرْقُ - مَم - گھبراہٹ۔ صبح یا ابتدائے
صبح۔ جہ - أَفْرَاقٌ وَافْرَقٌ -
الْفَرْقُ - سامنے کے دو دانتوں کا
فاصلہ اور دوری۔ فِي الْخَيْلِ - گھوڑے
کے ایک سر میں کا دوسرے سے اٹھا
ہوا ہونا جو کہ ناپسندیدہ ہے۔

الْفَرْقَانِ - مَم - ہر وہ چیز جس سے حق و
باطل میں امتیاز ہو۔ دلیل۔ مدد۔ صبح۔
سحر، اول صبح۔ تَوَارَاقَ - قرآن۔

الْفَرْقُ - ایک پیانہ جس میں تین صاع یا
سولہ رطل آئے۔

الْفَرْقَةُ - لوگوں کی ایک جماعت۔ جہ۔
فَرْقٌ۔

الْفَرْقَةُ وَالْفِرَاقُ - جَدَائِي -
الْفَرْقُ وَالْفَرْقُ وَالْفَارُوقُ وَالْفَرُوقُ
وَالْفَرُوقُ - بہت گھبرانے والا بونٹ
فَرْقَةٌ وَفَرْوَقَةٌ - تَبَتْ فَرْقٌ -
متفرق یا چھوٹی گھاس جو زمین کو نہ
چھپا سکے۔

الْفَرْوَقَةُ وَالْفَرْوَقَةُ وَالْفَارُوقَةُ - مرد
عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔

بہت گھبرانے والا۔ بزدل۔
الْفَرْيَقُ - ریوڑ۔ آدمیوں کا ایک گروہ اور
بڑی جماعت۔ فَرْيَقُ الْخَيْلِ - دوسروں
سے آگے بڑھنے والا گھوڑا۔ جہ۔ أَفْرَقَاءُ
وَأَفْرَقَةٌ وَفَرْوَقٌ۔

الْفَرْيَقَةُ - بکریوں کا ریوڑ۔ ایک قسم کا کھانا
جو زچہ کے لیے پکایا جاتا ہے۔

الْأَفْرَقُ - مانگ والا۔ جس کے داڑھی کے یا
پیشانی کے بال جدا کیے ہوئے ہوں جس
کے دانت جدا ہوں۔ وَدِيكَ أَفْرَقٌ
وہ مرغ جس کی کھنی شاخ در شاخ ہو
تَبَيَّنَ أَفْرَقٌ - وہ بیندھا کہ جس کے
سینگوں میں دوری ہو۔ مَوْنَتْ فَرْقَاءُ
الْفَارِيقُ - فَا - مَوْنَتْ قَارِقَةٌ - جہ۔

فَوَارِقٌ وَفَارِقَاتٌ - بادل کا وہ
ٹکڑا جو دوسرے بادلوں سے علیحدہ ہو
وہ اونٹنی جو دروازہ شروع ہو جانے پر
دوسرے اونٹوں سے علیحدہ ہو کر اکیل
ہو گئی ہو۔ جہ۔ فَوَارِقٌ وَفَرْقٌ وَ
فَرْقٌ وَفَرَاتٌ - الْفَارِيقُ - ہر وہ چیز
جو حق و باطل کو جدا کر دے۔

الْفَارُوقُ - ہر وہ شخص جو امور میں فیصلہ
کرے اور یہ لقب ہے حضرت عمرؓ میں
خطیب رضی اللہ عنہ کا۔ کہا جاتا ہے۔
صَمَّ تَفَارِيقٌ مَتَاعًا - اس نے
اپنے متفرق سامان کو اکٹھا کیا۔ اور کہا
جاتا ہے: "أَخَذَ حَقْلَهُ بِالْتَفَارِيقِ"
یعنی اس نے اپنا حق تھوڑا تھوڑا کر

کے لیا۔
الْمَفْرُوقُ وَالْمَفْرُوقُ - مِنْ الطَّرِيقِ - راستہ
کا وہ حصہ جہاں سے مختلف راستے نکلیں
الْمَفْرُوقُ مِنَ الشَّعْرِ - بالوں کا وہ حصہ
جہاں سے ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے مانگ

ف



نکالی جاتی ہے۔ جدائی کی جگہ۔ جہ۔
مَفَارِقُ: کہا جاتا ہے۔ "وَقَفَّكَ عَلَى
مَفَارِقِ الْحَدِيثِ" یعنی اس کو
حدیث اور گفتگو کے واضح طریقوں پر
مطلع کیا۔

الْفَرْقُ: وہ ستارہ جو قطب شمالی کے
قریب ہے اور اس سے لوگ راستہ
معلوم کرتے ہیں۔ اور اس کی دوسری
جانب میں ایک دوسرا ستارہ ہے جو اس
سے روشنی میں کم ہے۔ پھر دونوں کو
فَرْقَانِ کہتے ہیں۔ الْفَرْقُ: من
الارض: سخت، ہموار زمین۔ الْفَرْقُ:
نیل گائے کے بچہ کو بھی کہتے ہیں۔ جہ

فَرْقَانُ:
فَرْقَانُ: تیز دوڑنا۔
گوڑا یا خانہ کے راستہ سے ہوا کا
خارج ہونا، صفت فَرْقَانُ: فَرْقَعُ
الْأَصَابِعِ: انگلیاں پٹھانا۔ فَلَائِئَا۔
گروں مروڑنا۔

تَفَرَّقَ وَفُرَّقَ: فَرْقَعُ کے مطاوع
میں یعنی انگلیوں کا چٹخنا۔ فَرْقَعُ:
عندہ کسی سے علیحدہ ہو کر دور ہو جانا۔

فَرْقُ: دن، فَرْقَا: الثوب: کپڑے کو
لٹنا۔ الشَّيْءُ عَنِ الثَّوْبِ: کسی چیز
کو رگڑ کر یا کھرچ کر کپڑے سے زائل
کر دینا۔ الْجَوْشَنُ وَنَحْوُهُ: اخروٹ
وغیرہ کو رگڑ کر چھلکا اتار دینا۔

فَرْقُ: رس، فَرْقَا وَفَرْوَا: فَرْوَا
فَرْوَا: بعض رکھنا اور کہا گیا ہے
کہ یہ میاں بہوی کے بغض کے لیے
مخصوص ہے۔

فَرْقُ: رس، فَرْقَا: الْأُذُنُ: کان کی
جڑ کا ڈھیلا ہونا۔ صفت فَرْقَا: "و
فَرْقَا: رگڑنے میں مبالغہ کرنا۔ یعنی بار بار

رگڑنا۔

فَارَكَهُ مُفَارَكَةً: ایک دوسرے کو
چھوڑ بیٹھنا۔

أَفْرَكَ: السُّبُلُ: یعنی صارفویگا۔ یعنی
جب اس قابل ہو جائے کہ اس کو مل کر
اس کے دانے کھائے جائیں۔

تَفَرَّقَ: رفتار یا گفتگو میں اٹکنا۔ طُرُطَ
طُرُطَ ہونا۔ (والتَّفَرُّقُ) فَرْقُ
اور فَرْقُ کے مطاوع ہیں۔ کہا جاتا
ہے: "الْفَرْقُ مَثَلُ فَلَائِئَا" یعنی
فلاں کا مونڈھا اتر گیا۔ اپنی جگہ سے
ہٹ گیا۔

اِسْتَفْرَكَ: الْحَبْتُ فِي السُّبُلَةِ: دانہ کا
خوشہ میں سخت اور موٹا ہونا۔

الْبُزْكَ: بغض، بغض زوچین۔
الْبُزْكَ: چھلکا اتر اہوا۔ کہا جاتا ہے: "لَوْزُ
فَرْقُ: چھلکا ہوا بادام۔

الْفَارِكَ: فَا: اِسْمُ آةٍ فَارِكَ: یعنی
شوہر سے بغض رکھنے والی عورت۔ جہ
قَوَارِكَ۔

الْفَرْوُ: بغض رکھنے والا۔ شوہر سے بغض
رکھنے والی عورت۔

الْفَرْوُ: چھلکے سے نکلا ہوا دانہ۔ اور
وہ کھانا جو گھی میں ملا کر بنایا جائے۔

الْمَفْرُوكُ: منعہ۔ من الاہل: وہ اونٹ
جس کے مونڈھے اپنی جگہ سے ہٹ گئے
ہوں۔ من الثیاب: بہت گہرا رنگا
ہوا کپڑا۔

الْمَفْرُوكُ: چھوڑا ہوا۔ مغوص۔
أَقْرَمَ: الاناء: برتن کو بھرننا۔

الْأَقْرَمُ: گرے ہوئے دانت والا۔
الْفَرْوَانُ: پروانہ شاہی درعیا کے لیے

شاہی احکام، جہ۔ قَرَامِیْنِ:
الْفَرْوُ: وہ جگہ جو تنور کے علاوہ روٹی پکانے
کے لیے بنائی گئی ہو۔ جہ۔ أَقْرَانُ:

الْفَرْوَانُ: منظم ملحق۔ روٹی پکانے والا۔

الْفَارِكَ: روٹی پکانے والی۔

الْفَرْوُ: موٹی گول روٹی۔ واحد فَرْوِيَّةٌ ہے
سخت بدن کا آدمی۔

الْفَرْوُ: انار کا دانہ۔ تلوار۔ جوہر۔ تلوار۔ تلوار
کا نقش و نگار۔ کہا جاتا ہے: "سَيْفُ
فَرْوُ: بے مثل تلوار۔ جہ۔ قَوَارِذُ:

الْفَرْوُ: ایک قسم کا کپڑا۔ یہ فارسی لغت
برند کا معرب ہے۔

الْفَرْوُ: جوہر تلوار۔ تلوار کے نقش و نگار
جہ۔ اِفْرَنْدَاتُ:

فَرْوُ: (س) فَرْهًا: خوش ہونا۔ اکرنا۔
صفت (فَرْوُ):

فَرْوُ: فَرْهًا: وفودہ و فَرْهًا: فَرْهًا:
ماہر ہونا۔ حاذق ہونا۔ خوش ہونا۔

سبک ہونا۔ صفت (فَارِ):
أَفْرَكَ: الدَّجْلُ: چست و چالاک غلام۔

حاصل کرنا۔
اِسْتَفْرَكَ: الدَّوَابُّ: عمدہ جانور چھٹنا۔

الْفَارِ: ایسا چالاک جس کی عمارت ظاہر ہو
خوب کھانے والا۔ کہا جاتا ہے: "رَجُلٌ

فَارٍ وَجَارِيَّةٌ فَارٍ: جہ۔ فَرْوُ:
وَفَرْوُ: وفودہ و وفودہ و وفودہ و
فَرْوُ:

الْفَارِ: فَارٍ: کامنٹ۔ خوب صورت
جوان لڑکی۔ جہ۔ فَوَارِدُ: وفودہ و

الْفَرْوُ: کھلا ہوا ماہر۔
فَرْوُ: بھونا۔ فَرْوُ: لَفْسُ: سانس

کا پھوٹنا اور تنگ ہونا۔
تَفَرْوُ: الغلام: لڑکے کا موٹا ہونا۔

الْفَرْوُ: الغلام: لڑکے کا موٹا ہونا۔
تازہ حسین لڑکا۔

الْفَرْوُ: ایضاً: بکری یا پہاڑی بکری کا
بچہ۔ جہ۔ فَرْهِيْدُ:

فَرْوُ: الجُبَّة: جہ پر پستین لگانا۔

اِفْتَرَى - اَلْفَرَوُ - پوسٹین پھنسا۔
 اَلْفَرُوۃُ - مع بالوں کے سر کی کھال عورت
 کا سر ہند۔ اور حنی تاج۔ تو نگری۔
 والداری۔ کہا جاتا ہے۔ صَوْبِلَہ عَلٰی
 اُمِّ قَدُوۃِہ: اس کی کھوپڑی پر مارا۔
 اَلْفَرُوۃُ - فقیر کی جھولی۔ بھیل جس میں
 صدقہ کا مال رکھتا ہو۔ اونٹ کے بالوں
 سے تیار کردہ چادر۔ کپن۔ دے۔ وَاَلْفَرُوۃُ
 وہ پوسٹین جس کا اندرونی حصہ (لوہڑی،
 بٹی وغیرہ) جانوروں کی کھال سے تیار
 کیا جاتا ہے۔ جہ۔ قَدَاۃُ۔
 اَلْفَرَاۃُ - پوسٹین کا بنانے والا۔
 قَرُوۃٌ قَرُوۃٌ - مرنا۔
 قَرٰی یَفْرِی قَرٰی - علیہ الکذِب۔
 کسی کے ذمہ بہتان اور جھوٹی بات لگا
 دینا۔ الارض۔ زمین میں چلنا۔
 الْمَزَادَۃُ - تو شدان بنانا۔ اَلْبَرَقُ
 بجلی کا آسمان میں چمکنا۔
 قَرٰی وَقَرٰی - اَلشَّیْءُ - کاٹنا۔ پھاڑنا۔
 چیرنا۔
 قَرٰی یَفْرِی قَرٰی - دہشت زدہ اور
 متحیر ہونا۔
 اَفَرٰی - اَلشَّیْءُ - کاٹنا۔ پھاڑنا۔ درست کرنا۔
 فلا نًا۔ ملامت کرنا۔
 تَفَرٰی تَفَرٰی وَاَلْفَرٰی اَلْفَرٰی - پھٹنا۔
 کہا جاتا ہے۔ تَفَرٰتِ الارضِ یا
 لُعِیُوۃٍ - زمین میں چشمے پھوٹ پڑے۔
 اِفْتَرٰی اِفْتَرٰی - علیہ الکذِب۔ کسی
 پر تہمت لگانا۔ جھوٹ باندھنا۔
 اَلْفَرِیۃُ - قَرٰی کا اسم مرہ۔
 اَلْفَرِیۃُ - جھوٹ۔ تہمت۔
 اَلْفَرِیۃُ - پھٹا ہوا۔ بنائی ہوئی اور گھڑی ہوئی
 بات، عجیب شے۔ کہا جاتا ہے۔ فَلَانٌ
 یَفْرِی اَلْفَرِیۃُ - فَلَانٌ شَخْصٌ تَعَجِبُ خَیْرٌ
 اور حیرت انگیز کام کرتا ہے اور اسی سے

قرآن مجید میں ہے یہ آیت کریمہ "لَقَدْ
 جَعَلْتُ شَیْئًا قَرِیًۡا - یعنی تم نے ایسا
 کام کیا حیرت و تعجب ہے۔ مَوْنَتُہ
 قَرِیۡہ"۔ اور کہتے ہیں اَلْفَرِیۃُ اَلْفَرِیۃُ
 جلدی جلدی (اَلْفَرِیۃُ وَاَلْفَرِیۃُ)
 بڑا ڈول۔
 اَلْفَرَاۃُ - تعجب۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے۔ "هٰذَا
 اَفَرٰی اَلْفَرٰی - یعنی تمام جھوٹوں سے
 بڑا جھوٹ۔
 قَرَدَن، قَرَا - اکیلا ہونا۔ عندہ۔ جدا
 ہونا۔ عدول کرنا۔ اَلْفَطِی - ہرن کا
 گھیرانا۔ دھوکا دے کر غالب آنا
 ہوش اٹا دینا۔ گھبرا کر نکال لینا۔
 قَرَدَ عَنْ مَّكَانَہ - اس کے مکان
 سے نکالنا اور باہر لے آنا۔
 قَرَضَ قَرِیًۡا - الْجَوۡحُ - زخم سے خون
 پیپ وغیرہ کا بہنا۔ قَرَاۡتَہ و
 قَرُوۡتَہ - مضطرب ہونا۔ بھڑک
 اٹھنا۔
 اَفَرَدَ - گھبرا دینا۔
 اِفْتَرَدَ - علیہ - غالب ہونا۔
 تَفَارَدَ الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے کے مقابلہ
 کے لیے میلان میں نکل آنا۔
 اِسْتَفَرَدَ - جکا جاننا۔ ذلیل سمجھنا۔ مضطرب
 کر دینا۔ گھر سے باہر نکال لانا۔ قَتَلَ کرنا۔
 اِسْتَفَرَدَ مِنَ الشَّیْءِ - نکالنا۔
 اَلْقَرۡۃُ - ہلکا پھلکا آدمی۔ نیل گائے کا بچہ
 جہ۔ اَفَرَاۡتَہ۔
 اَلْقَرۡۃُ - اضطرابی حالت میں کودنا۔ کہا جاتا
 ہے۔ قَعَدَ مُسْتَفِرًا - یعنی غیر مطمئن
 ہو کر بیٹھنا۔
 قَرَدَ دَن، قَرَا - پھاڑنا۔ فسخ کرنا۔ ٹوڑنا
 بالعضا۔ لاشی سے پیٹھ پر مارنا۔
 اَلشَّیْءُ مِنَ الشَّیْءِ - ایک چیز کو دوسری
 چیز سے جدا کرنا۔

قَرَسَ دَن، قَرُوۡسًا - پھٹنا۔
 قَرَسَ دَس، قَرَسًا - پیٹھ یا سینہ میں کانٹھ
 پڑ جانا۔ صفت اَفَرَسُ۔
 قَرَسَ وَاَفَرَزَ - اَلشَّیْءُ - کسی چیز کو ریزہ
 ریزہ کرنا۔
 تَفَرَسَ وَاَلْفَرَسَ - پھٹنا۔ ٹکڑے ہونا۔
 اَلثَوْبُ - کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔
 اَلْفَرَسُ - بکریوں کا چھوٹا ساریوڑ۔ اور کہا گیا
 ہے کہ دس اور چالیس بکریوں کے درمیان۔
 بکری کا بچہ۔ شیر بھرا بچہ۔ جہ۔ غَلَدُوۡہ
 ران کے اوپر کے حصہ میں نکلے۔
 اَلْفَرَسُ - پھٹن۔ شکاف۔ رگڑ یا کہ یہ فزرقہ
 کی جمع ہے۔
 اَلْفَرُوۡرُ - پھٹن۔ شکاف۔
 اَلْفَرُوۡرَۃُ - پیٹھ یا سینہ میں کانٹھ۔ کشادہ
 راستہ۔ جہ۔ قَرَسُ۔
 اَلْفَارِزُ - خا۔ وہ کالی چوٹی جس میں سُرخ ہو۔
 کشادہ طویل راستہ۔
 اَلْقَاۡنَرۡۃُ - قَاۡزِرُ کا مَوْنَتُہ۔ ریگستان
 کا راستہ۔
 اَلْفَرَاۡۃُ - اَفَرَدَ کا مَوْنَتُہ، ہر گوشت عورت
 قریب البلوغ لڑکی۔ جہ۔ قَرَسُ۔
 اَلْقَزَارۡۃُ - چیتے کی مادہ۔ یہ مَوْنَتُہ من
 غیر لفظ ہے۔
 اَلْمَفَرُوۡسُ - مفع۔ کپڑا۔
 قَزَعَ دَن، قَزَعًا وِفَزَعًا - منہ۔ خوف
 کرنا۔
 قَزَعَ دَس، قَزَعًا - دہشت زدہ ہونا۔ خائف
 ہونا۔ اَلْبَلۡہ - فریاد چاہتا۔ پناہ لینا۔
 اَلوَجُلُ - فریاد سی کرنا۔ مدد کرنا۔
 مِّنْ لُّوۡہ - بیدار ہونا۔ قَزَعًا
 اَلْبَیۡحٰی فَلَانٌ - یعنی کسی کے آنے کی وجہ
 سے تیار کرنا۔
 اَفَزَعَلہ - خوف دلانا۔ گھبراہٹ دور کرنا۔
 اَفَزَعَمَ الْقَوۡمُ - فریاد سی کرنا۔ اَفَزَعَدَہ





مِنَ النَّوْمِ۔ بیدار کرنا۔ اَفَرَعَ عَنْهُ۔
گھبراہٹ نازل کر دینا۔
فَزَعَهُ۔ خوف دلانا۔ فَزَعَهُ عَنْهُ۔ گھبراہٹ
دور کرنا۔

الْفَزَعُ۔ مہم۔ گھبراہٹ۔ فریاد رسی۔
الْفُزَعَةُ۔ وہ شخص جس سے لوگ گھبرائیں۔
الْفُزَعَةُ۔ جو شخص لوگوں سے بہت گھبراتا ہو۔
الْفَارِجُ۔ خائف۔ فریادی۔ جہر فُزَعَةٌ۔
الْفَزَعُ وَالْفَارِجُ۔ خائف۔ فریادی۔
الْفَرَاغَةُ۔ بہت گھبرانے والا۔ وہ شخص
جو لوگوں کو بہت گھبرا دے۔ کھیت کا
اُچکا۔ یعنی وہ شے جو کھیت میں وحشی
جانوروں کے ڈرنے کے لیے کھڑی کر
دی جائے۔

الْمَفْرَعُ وَالْمَفْرَعَةُ۔ جلے پناہ۔ کہا
جاتا ہے "فَلَانٌ مَّفْرَعٌ أَوْ مَفْرَعَةٌ"
لِلنَّاسِ؛ فلاں شخص لوگوں کے لیے
جلے پناہ ہے، یعنی جب ان کو کوئی مہم
درپیش ہو تو اس کے پاس گھبرائے
ہوئے جاتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں۔
دونوں صیغے واحد و جمع اور مذکر و مؤنث
کے لیے یکساں مستعمل ہوتے ہیں۔

الْمُفْرَعُ۔ بہادر۔ بزدل۔
فَسَاكَ (ف) فُسًا۔ لالچی سے مارنا۔ عَن
کَذَا۔ روکنا۔

فَسًا وَفَسَاءً تَفْسِيَةً وَتَفْسِيَةً۔
الثوب۔ کپڑا بھڑانا۔
فَسِيٌّ (دس) فُسًا۔ پیٹھ کا اندر گھس جانا۔
اور سینہ کا باہر نکل آنا۔ صفت اَفْسًا
مؤنث فُسَاءً۔

تَفْسَاكَ۔ لالچی سے مارنا۔ تَفْسَا الثوبُ
کپڑے کا پھٹنا۔ بوسیدہ ہونا۔ المَرْضُ
فِيهِ۔ بیماری پھیلنا۔
تَفْسَا تَفْسَا۔ الرجُلُ۔ پیٹھ اور
سرین کو نکالنا۔

الْفُسْتُقُ وَالْفُسْتُقُ۔ پستہ کا درخت۔
الْفُسْتُقِيُّ۔ پستی رنگ والا۔

الْفُسْتَانُ۔ عورتوں کا ایک لباس بمنزلہ
قبا کے۔ جہر۔ فُسَاتَيْنُ۔
فَسَبَجَ۔ پیشاب کرنے کے لیے ٹانگیں
پھیلانا۔

اَفْسَجَ۔ عنده۔ چھوڑنا۔
فَسَحَ (ف) فُسْحًا۔ کشادہ قدم رکھنا۔
لَهُ فِي السَّفَرِ۔ پروانہ راہداری دینا۔
فَسَحَ فُسُوحًا وَفُسْحًا۔ لَهٗ فِي الْمَجْلِسِ
مجلس میں جگہ دینا۔

فَسَحَ (دک) فُسَاخَةً۔ امکان۔ وسیع
ہونا۔ صفت فُسَيْيْخٍ وَفُسَاخٍ و
فُسُخٍ۔ وَفُسُخٌ۔ مبالغہ کے لیے
میم کی زیادتی کے ساتھ۔

اَفْسَمَ۔ امکان۔ وسیع ہونا۔
فَسَمَ۔ امکان۔ وسیع کرنا۔ لَهٗ فِي
الْمَجْلِسِ۔ اس کے لیے مجلس میں
جگہ کر دی۔

تَفَسَّحَ۔ کشادہ ہونا۔ لَهٗ۔ کشادگی کرنا۔
کہا جاتا ہے "تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ"
وَرَتَقَا سَحُوحًا یعنی مجلس میں کشادگی
کرو۔ دوسروں کے لیے جگہ نکالو۔

الْفَسَحَ۔ امکان۔ کشادہ ہونا۔
صَدُرُكَ۔ کشادہ دل ہونا۔ اَلْفَسَحَ
طَرَفُكَ۔ دُند ہے ضاق کی معنی تنگ
دل ہونا، وسیع النظر ہونا۔ دوزنک
دیکھنا۔

الْفَسَحَ۔ مہم۔ سفر کے لیے اجازت نامہ۔
(پاسپورٹ، ویزا وغیرہ)
الْفُسْحَةُ۔ گنجائش۔ مکانوں وغیرہ کے درمیان
کی کشادگی۔ جہر۔ فُسَحٌ۔

الْفَيْسَجِي۔ دونوں قدموں کے درمیان
فاصلہ کا بعید ہونا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
يَمْشِي الْفَيْسَجِي" یعنی وہ کشادہ

قدم رکھ کر چلتا ہے۔

فَسَحَ (ف) فُسْحًا۔ جاہل ہونا۔ ضعیف
العقل ہونا۔ رَأْيٌ خِلَافٌ۔ فاسد کر
دینا۔ الْأَمْرُ وَالْعَقْدُ۔ توڑ دینا۔
معاملہ کو فسخ کر دینا۔ الشَّيْءُ۔ جدا جدا
کرنا۔ الْعُودُ وَالْمَقْصَلُ۔ کڑی یا
جوڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔

الثوبِ عنده۔ کپڑے کو اتار کر ڈالنا۔
فَسَحَ (ف) فُسْحًا وَفَسَحَ (دس) فُسْحًا
- الرَّأْيُ۔ رائے کا فاسد ہونا۔

فَسَحَ (ف) فُسْحًا۔ فسخ کرنے میں مبالغہ کرنا۔
فَسَحَ (ف) فُسْحًا۔ الْعَقْدُ أَوِ الْبَيْعُ۔ وَتَفَا سَحًا
- الْعَقْدُ أَوِ الْبَيْعُ۔ عقد یا بیع کے
توڑنے پر متفق ہونا۔ اور کہا جاتا ہے۔
تَفَا سَحَتِ الرَّقَاؤِيلُ۔ یعنی اقوال
متناقض ہو گئے۔

اَفْسَحَ۔ اَلِكِتَابُ۔ بھولنا۔
تَفَسَّحَ۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ تَفَسَّحَ الشَّعْرُ
عَنِ الْجِلْدِ۔ بال کا کھال سے جھڑ جانا۔
(ادریہ میت کے لیے خاص ہے)

الْفَسَحَ۔ الْعَزْمُ أَوِ الْعَقْدُ۔ ارادہ یا معاملہ
کا ٹوٹ جانا ختم ہو جانا۔

الْفُسْحَةُ۔ فسح کا اسم مرہ۔ بمعنی فسخ شدہ
کا ایک ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے "سَرَجُلٌ"
فُسْحَةٌ۔ یعنی کمزور بدن یا ضعیف
العقل مرد۔

الْفُسْحَةُ وَالْفُسْحِيَّةُ۔ وہ شخص جو اپنی
حاجات میں کامیاب نہ ہو۔ اور اپنے
امور کا صحیح انتظام نہ کر سکے۔ کمزور بدن
یا کمزور عقل والا۔ وہ کمزور جس کا ارادہ
شدت کے وقت ٹوٹ جائے۔

فَسَدَ (دس) فُسَادًا۔ فُسَادُكَ فُسَادًا أَوْ
فُسُودًا۔ خراب ہونا۔ بگڑ جانا۔ یہ
صَحُّ کی ضد ہے۔ صفت فُسَيْدٌ۔ جہر
فُسْدَى وَآفِسْدٌ۔

أَفْسَدًا وَفَسَدًا خَرَابَ كَرْنَا. بَكَرْنَا.
فَاسِدًا. الْقَوْمُ. قَوْمُ كَسَاخَ بَدَلُو كِي
كَرْنَا كَمِ جَسَ سَ وَه فَسَادَ بَرَامَدَه بَو
جَاثَ.

تَفَاسَدَ. الْقَوْمُ قَطَعَ رَحْمِي كَرْنَا اور آپس میں
مُخَالَفَت و دشمنی ہو جانا.

اِسْتَفْسَدَ. فَسَادَ جَابَنَا. يَرِ اِسْتَفْسَدَ كِي
فَدَحَ. اِسْتَفْسَدَ الْقَوْمُ. بَعْنِي قَوْمِ
سَ بَدِ مَعَالِكِي كَر كَ اِنَا مُخَالَفَت و دشمن
بَنَالِيْنَا.

الْفَسَادُ. مَم. كَهْلِي كَو. ظَلَمًا مَال لِيْنَا.
الْمَفْسَدَةُ. مَم. بَعْنِي فَسَادِيَا سَبَب
فَسَادَ. ج. مَفَاسِدُ.

فَسَرَدَنَ. فُسَرَا. اَلْمَكْرَ. دَاخِجَ كَرْنَا.
مَرَادُ بَنَانَا. الْمُعْطَى. دُكْلِي بَوِي چِيَز
كُو كَهْلُو دِيْنَا.

فَسَرَدَنَ. فُسَرَا دَفْعِيْرَةً. اَلطَّبِيبُ
طَبِيبَ كَامَرِيْنِ كَ فَارَوَرَه كُو دِيَكِه كَر
اِس كَا حَال مَعْلُوْم كَرْنَا.

فَسَرَا. دَاخِجَ كَرْنَا. ظَاهِرَ كَرْنَا.
تَفَسَّرَ اَمْرًا تَفَسَّرَ. فَلَانَا عَنِ اَلْاَمْرِ
و اِسْتَفْسَرَا اَلْمَكْرَ. دَاخِجَ كَرْنَا
كُو كَهْنَا.

اَلتَّفَسُّرُ. مَم. تَادِيلَ. بِرَوَه بَنَانَا.
وَضَاحَتَ كَرْنَا. بَيَانًا وَاضِحًا. ج. تَفَاسِيْرُ

وَحَرْفُ التَّفْسِيرِ. آجِي. وَ. اَنْ.
بَعْنِي تَفْسِيرَ كَ لِيْ دَوَحَرْفُ مَسْتَعْمَلِ هِي

آجِي اور اَنْ. آجِي سَ مَم كِي تَفْسِيرَ كِي
جَاتِي هَ جِيْ سَ "هَذَا اَعْتَبَدَ آجِي

ذَهَبُ" اور اَنْ سَ قَوْلَ كَ مَحِي
اور مَرَادُ كِي تَفْسِيرَ كِي جَاتِي هَ. جِيْ سَ

"نَادِيَةً كَرْنَا اَنْ اَفْعَلُ كَذَا" اِس
مِي اَنْ اَفْعَلُ نَادِيَةً كِي تَفْسِيرَ هَ

بَعْنِي مِيْرِي نَدَا اور پَكَارَنَ كَا مَقْصِدُ سَجَ
اِس كَامَ كَا حَكْمُ دِيْنَا تَهَا.

اَلتَّفْسِيرُ. مَم. مَرِيضُ كَا قَارَوَرَه. بِرَوَه
چِيَز تِس سَ دَوَسَرِي چِيَز پَر اِسْتَدَالَال
كِرِي.

الْفُسَاطُ وَ اَلْفُسُطَاطُ وَ اَلْفُسُطَاطُ.
خِيْمَ. رَا. كَا خِيْمَ. ج. فُسَاطِيْطُ.

وَ اَلْفُسُطَاطُ. بَضْمُ الْفَادِ. اِيَكِ پَرَا نَ
شَهَرُ كَا مَم هَ.

اَلْفُسِيْطُ. حَنَ كَا تَرَا شَه. وَاحِدُ فُسِيْطٍ.
اَلْفُسْفُسُ. اَلْفُسْفَاسُ. بِرَوَقُوتَ. اِيَكِ

بَدَلُو دَاخِجَ. ج. فُسَا فُسُو وَ
فُسَا فُسِيْنُ.

اَلْفُسَا فُسُو. جَهْرَ.
اَلْفُسِيْفُ. رَنَگَ بَرَنَگَ كَ چُھُوٹَ

چُھُوٹَ چُھُوٹَ چُھُوٹَ چُھُوٹَ چُھُوٹَ چُھُوٹَ
مُخَالَفَت و دشمنی اور قَسَمِ قَسَمِ كِي صَوْرَتِيْنِ
بَنَالِيْتِيْنِ.

فُسُقُ رَنَ. فُسُقُ رَنَ. فُسُقَا وَ
فُسُقَا. اَلْمَكْرَ وَ صِلَاحَ كَ رَاسَتَ سَ

بَرَكُ جَابَنَا. بِدَكَارَ بَوَا صِفَتَ فَاِسِقُ.
ج. فُسُقَةُ وَ فُسَا قِي وَ فَاِسِقُوْنُ.

مَوْنَتَ فَاِسِقَةُ. ج. فَاِسِقَاتُ وَ
قَوَا يَسِقُ.

رَنُفُسُقُ. اَلطَّبِيبُ عَنِ قَشْرِه. چُھُكَ
سَ كِي آجَا.

فُسُقَةُ. اَلْمَكْرَ كَا طَرَفُ نَسَبَتَ كَرْنَا.
اَلْفُسُقِيَّةُ. مَم. مَوْضُ. وَ مَوْكَلُ كِي جَبَ. ج.

فُسَا قِي.
اَلْفُسُقُ وَ اَلْمَقَاتُ وَ اَلْيَسِيْقُ. بِرَوَقُوتَ

بَدَكَ. بِيَا. سَنَ بِدَكَرِي كَرْنِ دَا. كَمَا
جَابَنَا. بِيَا. اَلْمَقَاتُ. بَعْنِي اِنَا اَلْمَقَاتُ.

اور پَرَا نَ اِس كَ لِيْ مَخْصُوصَ هَ جِيْ سَ
بِيَا خَبَرَتَ.

اَلْفَاِسِقِيَّةُ. بِيَا. بَانَدَ حَنَ كَا اِيَكِ مَخْصُوصَ
طَرَفَ. كَمَا جَابَنَا. بَعْنِي اِنَا اَلْمَقَاتُ
اَلْمَقَاتُ. بَعْنِي اِس طَرَفَ بِرَوَقُوتَ.

بَانَدَهَا.

فُسَا قِي. بِرَوَقُوتَ قَطَامَ. عَوْرَتَ كَ لِيْ
گَالِي هَ اور نَدَا اِس كِي صَوْرَتِ مِي مَسْتَعْمَلِ
هَ. كَمَا جَابَنَا. بَعْنِي اِنَا فُسَا قِي. بَعْنِي
بِيَا فَاِسِقَةُ.

اَلْفُسُقِيَّةُ. فَاِسِقَةُ كِي تَصْغِيرَ جَوَبِيَا.
فُسُلُ رَنَ. وَ فُسُلُ رَنَ. فُسَالَةُ وَ

فُسُوْلَةُ. وَ فُسُلُ. فَرَوَا يَه بَوَا.
كِيْنَه بَوَا. بَعْنِي مَرُوْتَ بَوَا.

فُسُلُ رَنَ. فُسُلَا. اَلصَّبِي. بِجَكَ دَوَرَه
چُھُٹَا نَا.

اَفُسُلُ. اَلْفُسِيْلَةُ. كَهْجُوْرَ كَ پُوْدَ كُو
اَكْهِيْرَ كَر دَوَسَرِي جَبَ لَكَانَا. قَلَمُ لَكَانَا.

اَفُسُلُ وَ فُسُلُ. دَرَاهِمَةُ وَ مَتَاعُهُ.
دَرَاهِمُ اور سَامَانُ كُو كَهْجُوْرَا دَرِيْ وَ قَوْتِ
كَرْنَا.

اَفُسُلُ. اَلْفُسِيْلَةُ. كَهْجُوْرَ كَ پُوْدَ كُو
اَكْهِيْرَ كَر دَوَسَرِي جَبَ لَكَانَا. قَلَمُ لَكَانَا.

اَلْفُسَالَةُ. مِمَّنِ اَلْحَدِيْدُ وَ نَحْوُهُ. لَوْهَ
كَ وَ رِيْزَ بُو كُو تَتَ وَ قَتَ زِيْمِ پَر

گِرِيْنِ.
اَلْفُسُلُ. مَم. اَلْمَكْرَ كَا قَلَمُ. وَ مَرُوْرَ جَسِ مِي

مَرُوْتِ وَ جَرَاتَ نَه بَوَا. بِرَوَدِي چِيَز. ج.
اَفُسُلُ وَ فُسُوْلُ وَ فُسَالُ وَ فُسُلُ

و فُسُوْلَةُ وَ فُسَالَةُ وَ اَفُسَالُ. كَمَا
جَابَنَا. "دَرَاهِمُ فُسُلُ دَرَاهِمُ"

فُسُوْلُ. خَرَابَ كَهْجُوْرَا دَرِيْمَ.
اَلْفُسُلُ. بِرَوَقُوتَ.

اَلْفُسِيْلَةُ. كَهْجُوْرَا يُوْدَه بُو كَه اِيَكِ جَبَ سَ
اَكْهِيْرَ كَر دَوَسَرِي جَبَ لَكَانَا. بِرَوَقُوتَ

كَ قَلَمُ. ج. فُسِيْلُ وَ فُسَالُ. اور
جَبَ. فُسُلَانُ.

اَلْفُسُوْلَةُ. مَم. فَتَوْرَ سُسْتِي.
اَلْمَفْسُوْلُ. رَذِيْلَ. وَ مَرُوْرَ جَسِ مِي مَرُوْتِ وَ
جَلَاوَتَ نَه بَوَا.



فَسَا يَفْسُو فُسُوًا و فُسَاءً - بلا آواز کے گوز کرنا۔

تَفَاسَى - اخراجِ ریاح کے لیے سرین اٹھانا۔

الْفُسَاوُ - مم - بلا آواز کا گوز۔ پھسکی۔

الْفُسُوَّةُ - ایک مرتبہ کی پھسکی۔ جہ فُسُوَاتُ فُسُوَاتُ الضَّبَاعِ - کما کی ایک قسم

دکھا ایک گھاس ہے جس کو لوگ سانپ کی چھتری اور بعض بادیں کھمبی بولتے ہیں۔

لَفَاسِيَةٌ و الفَاسِيَاءُ - گبریلہ۔ جہ۔ قَوَاسٍ الْفُسُوُ و الفُسَاءُ بہت گوز کرنے والا۔

الْمَفْسَى - دُبر۔ گوز کھنکے کی جگہ۔

فَشَشَ رَن، فَشَشَا، فَشَشَا، آہستہ آہستہ پھونکنا۔ الْوَطْبُ - دودھ کی مشکیزہ

کا سر بند کھول کر بھری ہوئی ہوا کا نکالنا۔

لَمَحْنُ نَكَالًا - النَّاظَةُ - اونٹنی کو جلدی سے دوہنا۔ الْبَابُ - دروازہ کو کسی

تدبیر اور چالاک سے بغیر کنبی کے کھولنا۔

بَيِّنَ الْقَوْمِ - چنل خوری کرنا۔ السَّقَاءُ پانی کی مشکیزہ کا منہ کھول کر ہوا کا

نکالنا۔

الْفَشَّ - الْجَرْحُ - زخم کی سوجن میں سکون اور کمی ہونا۔ الْبَيْنُ - دودھ جاری ہونا۔ الْوَجْلُ عَنِ الْأَمْرِ - سستی اور

کابل کرنا۔ الْفَشَّتِ الرَّيْحُ - مشک وغیرہ کا منہ اور تسرہ کھلنے سے ہوا کا

نکالنا۔ عِدَّةُ فَلَاحٍ - بیماری کا زائل ہونا۔

الْفَشَّ - مَم - وَالْفُشُوشُ ہے وقوف کمزور رائے والا۔ باطل پر فخر کرنے والا۔

موتا کبل۔ خُرُوب جس کو خرُوب بھی کہتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں پانی جمع ہو جائے اور پھرا رہے۔ وَالْفُشُوشُ - پانی ٹپکنے والی مشک۔

الْفَشَّاشُ - صیغہ مبالغہ۔ بہت ٹپکنے والی۔

الْفُشُوشُ - آواز۔ اور اسی سے ہے۔

فُشِشُ الْأَفْحَى - سانپ کی کھال کی آواز جو خشک زمین پر چلتے وقت نکلتی ہے۔

الْفَاشُوشُ - ارادہ اور رائے کا کمزور۔

رَجُلٌ مُنْفَشٌّ - الْمُنْفَرِّقُ - بھوٹے بالوں اور پھولے ہوئے نکتوں والا۔

فَشَّجَهُ رَمْنٌ، فَشَّجَا وَفَشَّجَهُ دَفَّشَجَهُ وَرَفَّشَجَهُ - الرَّجُلُ الْوَالِجِيُّ - مرد یا اونٹ کا پیشاب کرنے کے لیے

ٹانگیں پھیلانا۔

فَشَّخَزَ رَفً، فَشَّخَا - ظلم کرنا۔ بچوں کا کھیل میں طمانچہ مارنا۔ فَشَّجَهُ فِي اللَّعْبِ - کھیل میں بھوٹ بولنا۔ اور

ظلم کرنا۔

فَشَّخَ - الرَّجُلُ - اپنے جوڑوں کو ڈھیلا کرنا۔

الْفَشَّطُ - الْعَوْدُ - تر کڑی کا ٹوٹ جانا۔

فَشَّعَتْ رَفً، فَشَّعَا - الدَّرَّةُ - چینا کے اطراف کا سونھنا۔

فَشَّعَهُ رَفً، فَشَّعَا - بلند ہو کر ڈھانپ لینا۔ بِالسُّوْطِ - کوڑے کے چڑھ جانا اور مارنا۔ صفت فَاشَعٌ، مَوْشٌ

فَاشَعَةٌ - الشَّيْءُ - وسیع ہونا۔

مَنْشَرٌ ہونا۔

أَفَشَعَهُ - بِالسُّوْطِ - کوڑے سے مارنا۔

فَشَّجَ - بِمَعْنَى فَشَّجَ - فَشَّعَهُ النَّوْمُ - نیند کا غلبہ کرنا۔

تَفَشَّجَ - الشَّيْبُ فِيهِ دَفَّشَعَهُ، بَرَّحَا کا ظاہر ہونا اور تمام قویٰ اور اعضاء بدن میں پھیل جانا۔ الْبَيُوتُ - گھروں میں داخل ہو کر نائب ہو جانا۔ الرَّجُلُ

موتے کھر دے کیڑے پننے کی وجہ سے کسل مند ہونا۔ تَفَشَّجَتْ الْعُقَّةُ - پیشانی کے سفید بالوں کا پھیل کر آنکھ کو گھیر لینا۔

الْفَشَّخَ - الشَّيْءُ - کشادہ ہونا۔ بہت ہونا۔ ظاہر ہونا۔

الْفَشَّخَةُ - السَّمَرَةُ - نرکل کا گودا۔

نَاصِبَةٌ فَانِشَعَةٌ وَفَشَّعَاءُ - پیشانی جس کے منتشر بال آنکھوں کو ڈھانپ لیں۔

الْفَشَّاعُ وَالْفَشَّاعُ - اِکَا س بِل (وہ گھاس جو اخیر پتوں کے ہوتی ہے اور درختوں پر پڑ

پڑھ کر ان کو خراب کر دیتی ہے) الْفَشَّاعُ - کابل۔

الْأَفَشَّعُ - مینڈھا جس کے سینک دائیں بائیں نکلے ہوئے ہوں۔ رَجُلٌ أَفَشَّعٌ

الْأَسَانُ - جس کے دانت آگے پیچھے ہلکے ہوئے ہوں۔ برابر نہ ہوں۔ مَوْشٌ أَفَشَّعَاءُ - جہ۔ فَشَّعٌ -

الْمَفَشَّعُ - جو اپنے ساتھی اور دوست سے برا سلوک کرے۔

الْمَفَشَّعُ - بے فیض احسان جتانے والا۔

فَشَّعَتْ - رائے کا کمزور ہونا۔ بہت زیادہ بھوٹ بولنا۔ غیر کی چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا۔ صفت فَشَّعَاشٌ -


فَشَّعَاشٌ بِمَوْلَاهُ - بہت شایا کی چھینٹ دینا۔

الْفَشَّعَاشُ - مِنَ النَّوْقِ - وہ اونٹنی کہ جس کا دودھ نکالتے وقت دودھ کی دھاریں ادھر ادھر پڑیں۔

الْفَشَّعَاشَةُ - وہ چیز جس میں صلابت (سختی) نہ ہو۔ کہا جاتا ہے: تَخْرُجُ الرُّبْدَةُ فَشَّعَاشَةً - یعنی کھن نرم نکلتا ہے۔

فَشَّعَاشٌ دَسٌ، فَشَّعَاشٌ - بہت حرص کرنا۔ حرص کی ایسی زیادتی جس کی وجہ سے کبھی کسی چیز کو اٹھائے اور کبھی اس کو چھوڑ کر دوسری اٹھائے۔ جس کا انجام بعض اوقات دونوں کا ہاتھ سے نکل جانا ہوتا ہے۔

فَشَّعَاشٌ - اِجَانُکَ آجَانَا - الْفَشَّاشُ - ہرن کے



سیکڑوں کے درمیان فاصلہ ہونا۔ صفت
 أَفْشَقٌ - مؤنث۔ فَشَقَاءٌ۔
 فَشَقَّ (رض) فَشَقًّا - الشیء - توڑنا۔
 فَاشَقَّةٌ - اچانک آجانا۔
 تَفَشَّقَ - بشوب۔ کپڑے کو بدھی جیسا بنا کر پہننا۔
 الْفَشَقُ - مم۔ دوڑنا۔ بھاگ جانا۔ نشاۃ۔
 الْفَشَقُ - کارٹوس۔ واحد۔ فَشَقْدٌ
 (یہ کلمہ دخیل ہے)
 فِشَل (رس) فَشَلٌّ - لڑائی اور شدت کے وقت بزدلی کرنا۔ دیر لگانا۔ باہر نہ نکلتا
 صفت فِشِلٌ وَفِشِلٌ وَفِشِيلٌ۔
 جہ۔ فِشَلٌ وَأَفْشَالٌ۔
 فَعَلَّ (ن) فَعْلًا - كَيْدًا۔ ڈاڑھی کو پھٹکارنا۔
 فَشَلْتُ وَتَفَشَلْتُ وَفَشَلْتُ - المرأة عورت کے لیے پالکی کا پردہ بنانا۔
 تَفَشَّلَ - الماء - پانی ہنا۔ تَفَشَّلَ الرَّجُلُ مِنْهُمُ امْرَأَةً - نکاح کرنا۔
 الْفِشَلُ - جہ۔ فُشُولٌ - وَالْمِشَلُّ جہ۔ مَفَاشِلٌ - پالکی کا پردہ۔ ہودج کا پردہ۔ ہودج کے اندر بچانے کی چیز۔
 الْمِشَلُّ - وہ شخص جو غیر قوم میں شادی کرے تاکہ اولاد لاغز نہ ہو۔
 التَّفَشِيلُ - مم۔ بھن میں بقیہ دودھ۔ جہ تَفَاشِيلٌ۔
 فَشَا يَفْشُوَانِ فَشَا وَفَشَا وَفَشَا وَفَشَا - خَبْرَةٌ أَوْ فَضْلَةٌ أَوْ سِرٌّ - خبر یا فضیلت یا بھید کا پھیل جانا اور شہرت پانا۔ فَشَتِ الْمَاثِيَةَ - چراگاہ میں جانا۔ أَمْرٌ هُمُ - امور کا متفرق ہونا۔ اور کہا جاتا ہے فَشَتْنٌ عَلَيْهِ صَبِيحَتُهُ - اس کی جائداد کا انتظام بکھر گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو سنبھالے۔

أَفْشَى (فشا) - الشیء - پھیلانا۔ شہرت دینا۔ سِرٌّ لِفُلَانٍ - بھید ظاہر کرنا۔ الرجل - بہت جانوروں والا ہونا۔
 تَفَشَّى تَفَشْيًا - المرض القوم دھیمہ قوم میں بیماری پھیلنا۔ تَفَشَّتِ الْقَرْحَةُ زخم کا چوڑا ہونا۔
 الْفَشَاءُ - موشیوں کی پیردار اور زیادتی۔ الْفَشْيَانُ - بے ہوشی۔
 الْفَشْوَةُ - عورت کی خوشبوؤں کے رکھنے کا ڈبہ۔ عطر دان۔
 الْفَاشِي - فَا - مؤنث فَاشِيَةٌ - جہ۔ فَوَاشٍ (ر۔ والفَوَاشِي) پھیلے ہوئے موشی۔ التَّفَشِّي - مم۔ بولتے وقت صرف کو مضمم کرنا۔
 فَصَّ (رض) فَصًّا وَفَصَّي - كَذَا مِنْ كَذَا - جلا کر نہ اکھاڑنا۔
 فَصَّ (رض) فَصِيصًا - الجرح - زخم سے خون پیپ کا ہونا۔ العرق - پسینہ ٹپکنا۔ الْوَكْدُ - بچہ کا آہستہ آہستہ رونا۔ فَصَّ الْجُنْدُبُ - بڑی کا آواز نکالنا۔
 فَصَّصَ - الْحَاظِمَ - انگوٹھی پر نگینہ لگانا۔ بِعَيْنَيْهِ - گھورنا۔
 أَفَصَّ - إِلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ - کسی کو اپنے حق کا کچھ حصہ نکال کر دینا۔
 لَفَصَّ - مَنَدٌ - جدا ہونا۔
 اسْتَفَصَّ - مِنْهُ شَيْئًا - کسی سے کسی چیز کو علیحدہ کر دینا۔
 الْفَصُّ وَالْفَصُّ وَالْفَصُّ - وہ قیمتی پتھر جو انگوٹھی میں لگاتے ہیں۔ اس میں اگرچہ فاء میں تینوں حرکتیں فتح کسرہ ضمہ مستعمل ہیں لیکن فتح اعلیٰ اور افضل ہے۔ الْفَصُّ تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ آنکھ کی سیاہی۔ لسن کا جوا۔ اصل امر۔ حقیقتہ الامر۔ مرد و بڑیل کے ملنے کی جگہ

فَصَّ الْمَاءَ - بَلْبَل - جہ۔ فُصُوصٌ وَفَصَّاصٌ وَأَفَصَّ۔
 الْفَصَّاصُ - نگینہ لگانے والا۔
 الْفَصِيصُ - صاف چکنی گھٹی گویا کہ روغن ملی ہوئی ہے۔
 فَصَّحَ (ن) فَصْحًا - الصُّبْحُ فَلَانًا - صبح ظاہر ہونا۔
 فَصَّحَ (ن) فَصْحًا - فَيَصَحُّ - فَيَصَحُّ بِنَا - ہونا۔ صفت فَصِيحٌ - الْأَعْجَبِيُّ عربی زبان میں گفتگو کرنا۔ اللَّسَنُ - دودھ سے جھاگ کا اتار لینا۔ صفت فَصَّحٌ وَفَصِيحٌ۔
 فَصَّحَ - اللَّسَنُ - دودھ کا بے جھاگ ہونا۔
 أَفَصَّحَ - فصاحت سے ہونا۔ فصیح ہونا۔ مراد کو ظاہر کرنا۔ عَنْ كَذَا - خلاصہ کرنا۔
 عَنْ الشَّيْءِ - ظاہر کرنا۔ بیان کرنا۔ مِنْ كَذَا - نکل جانا۔ رُئِيَ بِأَنَّهُ - الامر۔ واضح ہونا۔ اللَّسَنُ - دودھ کا بے جھاگ ہونا۔ الصُّبْحُ - صبح کی روشنی پھیلنا۔ الْفَوَسُ - گھوڑے کا صاف طور پر بننا۔ الْبَوْلُ - پیشاب صاف رنگ کا ہونا۔ النَّصَارَى أَوِ الْيَهُودُ - نصاریٰ یا یہود کا عید منانا۔ یا ان کی عید کا زمانہ آنا۔
 تَفَصَّحَ - زبان آف ہونا۔ عمدہ خوش بیان ہونا۔ (ر۔ وَتَفَاصَّحَ) بتکلف فصیح ہونا۔ یا فصیحوں کی مشابہت اختیار کرنا۔
 الْفَصَاحَةُ - مم۔ بیان۔ کلام کا تعقید سے خالی ہونا۔ اور یہ متکلم۔ کلام کلمہ تینوں کی صفت میں واقع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے «رَجُلٌ فَصِيحٌ» کلام فَصِيحٌ۔
 كَلِمَةٌ فَصِيحَةٌ۔
 الْفَصِيحُ - فصاحت والا۔ جہ۔ فَصَّحَ وَفَصَّحَاءُ وَفَصَّاحٌ - مؤنث فَصِيحَةٌ - جہ۔ فَصَائِحٌ وَفَصِيحَاتٌ۔





الفَصْمُ - عیسائیوں کی عید کا دن - حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھنے کی یادگار ہیں۔ فِصْمُ الْيَهُودِ - یہودیوں کی عید کا دن مصر سے نکلنے کی یادگار میں - کہا جاتا ہے - "يَوْمُ فِصْمِهِ" بے بادل کا دن -

المُقَصِّصُ - واضح - يَوْمُ مُقَصِّصٍ - بے بادل کا دن -

فَصْمٌ رَفٌ، فَصْحًا - عَنِ الْأَمْرِ - کسی معاملہ میں جان بوجھ کر غفلت کرنا - الْعُودُ وَالْمَفْصَلُ - لکڑی یا جوڑ کو اکھڑانا -

فُصِّحَ - فُلَانٌ - خرید و فروخت میں نقصان اٹھانا -

الْفَصِيحُ وَالْفَصِيحَةُ وَالْفَاصِحَةُ - کمزور عقل اس میں قے مبالغہ کے لیے ہے -

فَصَدَّ (رَضَى) فَصَدًّا أَوْ فَصَادًا - الْمُرْتَضَى - رگ کھولنا - لَهُ عَطَاؤٌ - کسی کو جاگیر دینا - وَافْتَصَدَ الْعَرُوقُ - رگ کھولنا -

فَصَدَّ الشَّيْءُ - تھوڑے سے پانی میں بھگونا أَفْصَدَةُ - الشَّجَرَةُ - درخت کے کوئیلے نکلتا -

تَفَصَّدَ - الدَّمُ - خون ہنا - کہا جاتا ہے "جَاءَ يَتَفَصَّدُ عَرَقًا" - پسینہ بہتے ہوئے آنا -

الْفَصْدَاتُ - الشَّجَرَةُ - درخت کے کوئیل نکلتا -

الْفَصْدُ - الدَّمُ - خون ہنا - الْفُصْدَةُ وَالْفُصَيْدَةُ - کھجور خون کے ساتھ مخلوط کیا ہوا -

الْفُصَيْدُ - بھنی مفسود - یعنی وہ شخص کہ جس کے فصد کی گئی ہو - وہ خون جس کو آنتوں میں بھر کر پھونکا اور بھونا گیا ہو -

الْيَفْصَدُ - نشتر - فصد کرنے کا آلہ -

فَصَمَ رَفٌ، فَصْعًا - التَّمَرَّةُ - دو انگلیوں سے دبا کر کھجور کا پھلکا علیحدہ کرنا -

تَحَامَتُ عَنْ رَأْسِهِ - سر سے عمامہ اتارنا - الشَّيْءُ - کسی چیز کو انگلیوں سے دبانے تاکہ نرم ہو جائے اور اندرونی حصہ کھل جائے -

رَفٌ - وَقَصَمَ لَهُ بَكْنًا - عطا کرنا - الشَّيْءُ مِنْ كَذَا - آپس چیز کو دوسری سے نکالنا - الْفَرْطَةُ - تر کھجور کو دو انگلیوں سے دبانے کا پھلکا علیحدہ ہو جائے -

الْفُصْعُ - الشَّيْءُ مِنْ كَذَا - نکلتا - اِفْتَصَعَ - حَقَّقَهُ مِنْهُ - اپنا پورا حق زبردستی لینا -

الْفَصْعَانُ - ہمیشہ ننگے سر رہنے والا - الْفُصْعَاوُ - چوبیا -

فُصِّصَ فَصْفَصَةً - الْكَلَامُ - جلدی بولنا - الدَّابَّةُ - فِصْفِصَ كَاسَ جَانُورٍ كَوَكْهَلَانَا -

تَفَصَّفَصَ - الْقَوْمُ عَنْ فَلَانٍ - جدا ہونا - الْفُصْفَصَةُ - جانوروں کے کھانے کی ایک گھاس - یہ لفظ اسی وقت تک بولا جاتا ہے جب تک وہ گھاس ہری ہو -

فَصَا فِصٌّ - عَوَامُ اس کو فِصْفَكَةً بولتے ہیں -

الْفُصَا فِصٌّ - بچہ ارادہ والا - فَصَلٌ (رَضَى) فَصْلًا - الشَّيْءُ - قطع کرنا - جُزَا کرنا - ممتاز اور علیحدہ کرنا - مقرر - ثابت کرنا - اور اسی سے ہے فَصْلُ الْخُصُوفَاتِ

یعنی جھگڑوں کو فیصلہ کر کے قطع کر دینا - فَصْلٌ بَيْنَهُمَا - دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ اور مائل ہونا - فَصْلُ الْوَلَدِ عَنِ الرِّضَاعِ - بچہ کا دودھ چھڑانا -

فَصَلَّ رَنٌ، فَصُولًا - الْكُرْمُ - انگر کی پیل میں دانہ بیٹھنا - الرَّجُلُ عَنِ الْبَلَدِ -

شہر سے نکل جانا - فَصَّلَ - الْكَلَامُ - وضاحت اور تفصیل کرنا -

رَبَّهَ أَجْلٌ كِي ضِدِّهِ - الشَّيْءُ - چند متناہر ٹکڑے کر دینا - یا ایک باب کو چند فصلوں پر منقسم کرنا - الثَّوْبُ - کپڑے کو سینے کے لیے قطع کرنا - الْقَصَابُ الشَّاقَةُ - بکری کاٹ کر علیحدہ علیحدہ ٹکڑے رکھنا - الْعُقْدُ - ہار کے دو ہم رنگ موتیوں یا پتھروں کے درمیان ہیں ایک دوسرے رنگ کا موتی یا پتھر ڈالنا -

فَاصِلٌ - شَوِيكَةٌ - شرکت کے معاملہ سے علیحدگی اختیار کرنا - أَفْصَلُ - الْمَوْلُودُ - بچہ کا دودھ چھڑانے کا وقت آ جانا -

الْفُفْصَلُ - جُزَا بَظًا - رَبَّهِ اتَّصَلَ كِي ضِدِّهِ - عَنهُ - علیحدگی اختیار کرنا - تَفْصَلُ - ہر ہر عضو کے ٹکڑے ہو جانا اور کٹنا -

تَفَا صَدَّتِ الْأَشْيَاءُ - بَعْضُ كَالْبَعْضِ سے جدا ہونا - اِفْتَصَلَ - الْوَلَدُ عَنِ الرِّضَاعِ - بچہ کا دودھ چھڑانا - الْفُفْصَلَةُ - الْفُفْصَلَةُ - بچہ کے پودے کو اکھڑ کر دوسری جگہ لگانا -

الْفُفْصَلُ - تَفْصِيلُ طَلَبِ كَرْنَا - الْفُفْصَلُ - مَمٌ - دو چیزوں کے درمیان کی روک - دوزمینوں کے درمیان کی حد - یعنی ڈول اور ربہ - مِنَ الْجَسَدِ - ہر دو ہڈیوں کے ملنے کی جگہ، جس کو جوڑتے ہیں اور موضع الفصل کہنا خلاف اصل ہے - کہا جاتا ہے "لِلنَّسَبِ أَصُولٌ وَفُصُولٌ" - یہاں فصل سے مراد فروع ہے - الْفُفْصَلُ مِنَ الْكِتَابِ - کتاب کا ایک مستقل ٹکڑا - الْفُفْصَلُ -

شہر سے نکل جانا - فَصَّلَ - الْكَلَامُ - وضاحت اور تفصیل کرنا - رَبَّهَ أَجْلٌ كِي ضِدِّهِ - الشَّيْءُ - چند متناہر ٹکڑے کر دینا - یا ایک باب کو چند فصلوں پر منقسم کرنا - الثَّوْبُ - کپڑے کو سینے کے لیے قطع کرنا - الْقَصَابُ الشَّاقَةُ - بکری کاٹ کر علیحدہ علیحدہ ٹکڑے رکھنا - الْعُقْدُ - ہار کے دو ہم رنگ موتیوں یا پتھروں کے درمیان ہیں ایک دوسرے رنگ کا موتی یا پتھر ڈالنا - فَاصِلٌ - شَوِيكَةٌ - شرکت کے معاملہ سے علیحدگی اختیار کرنا - أَفْصَلُ - الْمَوْلُودُ - بچہ کا دودھ چھڑانے کا وقت آ جانا - الْفُفْصَلُ - جُزَا بَظًا - رَبَّهِ اتَّصَلَ كِي ضِدِّهِ - عَنهُ - علیحدگی اختیار کرنا - تَفْصَلُ - ہر ہر عضو کے ٹکڑے ہو جانا اور کٹنا - تَفَا صَدَّتِ الْأَشْيَاءُ - بَعْضُ كَالْبَعْضِ سے جدا ہونا - اِفْتَصَلَ - الْوَلَدُ عَنِ الرِّضَاعِ - بچہ کا دودھ چھڑانا - الْفُفْصَلَةُ - الْفُفْصَلَةُ - بچہ کے پودے کو اکھڑ کر دوسری جگہ لگانا -

فَصَلَّ رَنٌ، فَصُولًا - الْكُرْمُ - انگر کی پیل میں دانہ بیٹھنا - الرَّجُلُ عَنِ الْبَلَدِ - شہر سے نکل جانا - فَصَّلَ - الْكَلَامُ - وضاحت اور تفصیل کرنا - رَبَّهَ أَجْلٌ كِي ضِدِّهِ - الشَّيْءُ - چند متناہر ٹکڑے کر دینا - یا ایک باب کو چند فصلوں پر منقسم کرنا - الثَّوْبُ - کپڑے کو سینے کے لیے قطع کرنا - الْقَصَابُ الشَّاقَةُ - بکری کاٹ کر علیحدہ علیحدہ ٹکڑے رکھنا - الْعُقْدُ - ہار کے دو ہم رنگ موتیوں یا پتھروں کے درمیان ہیں ایک دوسرے رنگ کا موتی یا پتھر ڈالنا - فَاصِلٌ - شَوِيكَةٌ - شرکت کے معاملہ سے علیحدگی اختیار کرنا - أَفْصَلُ - الْمَوْلُودُ - بچہ کا دودھ چھڑانے کا وقت آ جانا - الْفُفْصَلُ - جُزَا بَظًا - رَبَّهِ اتَّصَلَ كِي ضِدِّهِ - عَنهُ - علیحدگی اختیار کرنا - تَفْصَلُ - ہر ہر عضو کے ٹکڑے ہو جانا اور کٹنا - تَفَا صَدَّتِ الْأَشْيَاءُ - بَعْضُ كَالْبَعْضِ سے جدا ہونا - اِفْتَصَلَ - الْوَلَدُ عَنِ الرِّضَاعِ - بچہ کا دودھ چھڑانا - الْفُفْصَلَةُ - الْفُفْصَلَةُ - بچہ کے پودے کو اکھڑ کر دوسری جگہ لگانا -

سال کے چار موسموں اور حصوں میں سے ایک حصہ۔ اور وہ چار حصے یہ ہیں موسم بہار۔ گرمی۔ خریف۔ سردی۔ ج فُصُولُ۔ الْفُصْلُ۔ حق و باطل کے درمیان فیصلہ۔ قَوْلٌ فَصْلٌ۔ قول حق جس میں باطل کا شائبہ نہ ہو۔ یَوْمُ الْفَصْلِ۔ قیامت کا دن جس میں جنتی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ اور فَصْلُ الْخُطَابِ سے مراد وہ خطاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو۔ نیز فَصْلُ الْخُطَابِ خطیب کے قول اِباحاً بعد کو بھی کہتے ہیں۔ الْفَصْلَةُ۔ فصل کا اسم مرة۔ کچھ کا پودہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لگایا گیا ہو۔ الْفَصِيلُ۔ شہنشاہ کے سامنے چھوٹی دیوار۔ اونٹنی یا گائے کا بچہ جو ماں سے علیحدہ کیا گیا ہو۔ ج۔ فَصَالٌ وَفُصْلَانٌ وَفُصْلَانٌ۔ الْفَصِيلَةُ۔ فَصِيلٌ کا مونث۔ ران کے گوشت کا پارچہ یا کسی اور حصہ بدن کا ٹکڑا۔ قبیلہ اور خاندان کے وہ قریبی رشتہ دار جن کو کنبہ اور گھرانہ کے لوگ کہا جاتا ہے۔ ج۔ فَصَائِلٌ۔ کہا جاتا ہے "جَاءُوا بِفَصِيلَةٍ تَهْتِمُ" یعنی وہ سب آئے۔

الفَصْلُ: انعام حاصل کرنے کے لیے لوگوں
کی تعریفیں کرنے والا۔ سَيِّفُ فَصْلٍ
تتوارقا طبع۔

الفِصَالُ - دودھ چھڑانا۔

لِفَاصِلٍ. فَاحْكُمَ فَاَصِلٌ. نَافِذٌ هُوَ
وَالَا حَكْمَ.

لفاصِلَةٌ ۱۔ فَاَصِلْ ۱۔ کامُنْت۔ ہمارے دو
مردوں کے درمیان ایک دوسرے رنگ
کا تھرد۔ الفاصِلَةُ الصُّغْرَى ۲۔
علم العرُوض۔ علم عروض کی اصطلاح

میں اس صورت کو کہتے ہیں کہ کسی کلمہ میں
تین حرف متحرک کے بعد چوتھا حرف
ساکن ہو۔ جیسے ضَرْبَتْ، اور الْفَاصِلَةُ
الْكُبْرَى یہ ہے کہ چار حرف متحرک ہوں۔
اور پانچواں ساکن جیسے ضَرْبَكُمُ اور
سمیع میں فاصلة کا درجہ وہی ہے جو
شعر میں قافیہ کا ہے۔ ج۔ قَوَّاصِلُ۔
الْفَيْصَلُ۔ حاکم۔ قاضی۔ وہ حکم اور فیصلہ
جو حق و باطل میں امتیاز کر دے۔ جو چیز
چند امور میں فیصلہ کر دے۔ متوارق طع۔ ج
فَيَّاصِلُ۔ قِيَّاصِلُ۔ عراق کے بادشاہوں
کا لقب ہے۔ حُكْمُ قِيَّاصِلُ۔ نافذ شدہ
حکم۔ حُكُومَةُ قِيَّاصِلُ۔ نافذ ہونے
والی حکومت۔ ضَرْبَةُ قِيَّاصِلُ۔ وہ
مار جود و ہمسروں میں فیصلہ کن ہو۔
لَفَيْصِلِي۔ حاکم۔ بیج۔

لِیَفْصَلُ: بدن کے اعضا کا جوڑ۔ ج۔
مَفَاصِلُ۔

لَمَفَاصِل۔ ایک دوسرے سے ملے ہوئے
پتھر۔ دو پہاڑوں کے درمیان کی رگیستانی
یا پتھری زمین جس کا پانی نہایت بدکا
اور صاف ہوتا ہے۔ دَاءُ الْمَفَاصِلِ۔
وہ بیماری کہ جس میں بدن کے جوڑوں
میں اور ان کے اطراف میں درد
ہوتا ہے۔

البِفْصَلُ - زبان -

مِفْصَال۔ جس کی عادت فیصلہ کی ہو۔

المَفَصَّلَةُ: برہیوں کی اصطلاح میں اس قبضہ کو کہتے ہیں کہ جو کواڑوں میں اور دروں میں کسے جاتے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ کواڑ دروازہ کی بازو سے علیحدہ رہتا ہے۔

فَصَوَّرَ رَضٍ قُضْمًا - الدَّمْلَجُ وَنَحْوُهُ.

بازوبند وغیرہ کو بغض خدا کے ہوئے توڑنا

— الشیخ کاٹنا۔

فَصَمَّ - الْبَيْتُ - مَكَانُ كَاغَرْنَا.
أَفْصَمَ - عَنْهُ الْمَطَرُ وَالْحُتَّى - بَارِشٌ يَأْ
بُخَارُكَامَنْقَطِعٌ هُونَا -

تَفَصَّمَ وَانْفَصَمَ - منقطع ہونا - بقیہ دائی
کے ٹوٹنا - پھٹنا۔

الفَصِيمُ وَالْأَفْصَمُ وَالْمُنْفَصِمُ - ٹوٹا ہوا۔
کٹا ہوا۔ پھٹا ہوا۔

فَصَلِّ يَفْصِيْ فَصِيًّا - الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ
وَعَنْهُ - جَدَا هَوْنًا - زَائِلٌ كَرْنَا -

قصی تفضیلہ۔ اللحم من العظم
عین العظم۔ گوشت کو ہڈی سے
علیہ کرنا۔ جدا کرنا۔ چھڑانا۔

فَإِصَاةٌ مُفَصَّاةٌ - جدا ہونا۔

أَفْطَىٰ أَضَاءَ - خیر یا شر سے نکل جانا۔
عَنَّا الْمَطَرُ - بارش کا منقطع ہونا۔

الصَّاعِدُ - شکاری کے جال میں شکار
کا نہ پھنسنے۔

تَفَصِّي تَفْصِيًّا وَانْفَصَى الْفِصَاءُ -

مِنْ أَوْعَنِ الشَّدَّةِ أَوْعُرَهَا. رَمَانُ

پانا کہا جاتا ہے۔ تھ

قرض سے نجات پائی۔ تَفَضَّلِي الرَّجُلُ
مِنَ الرَّجُلِ أَوْ عَنْهُ۔ جدا ہونا۔

الشيء - پورا لینا۔

الفَصِيُّ - خشک انگور کا دانہ۔ واحد فُصَّاءُ
الفَصِيَّةُ وَالْفَصِيَّةُ - خیر سے عمومی شر سے

رباعی۔ مَا بَيْنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ۔ موسم

کا اعتدال۔ کہا جاتا ہے ”یومِ قُصْبِہ“

وَيَوْمَ فُصِّيَةٍ، يَوْمَ مَفْضٍ وَلَيْلَةٍ



فصل ہونا۔ صاحب فضیلت ہونا۔
فَضْلُهُ۔ علی غیری۔ کسی پر فضل کا حکم
لگانا۔ ترجیح دینا۔

فَاضِلُهُ فَضْلًا لَدُوْهُ مَقَاضِلَةً۔ فضل میں
فخر کرنا۔ فَاضِلٌ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ۔ دو
چیزوں کے درمیان فضل کا مقابلہ کرنا۔
أَفْضَلُ۔ عَلَيْكَ۔ بڑھنا۔ بھلائی کرنا۔ مہربانی
کرنا۔ عَلَيْكَ فِي الْحَسَبِ۔ حسب
میں بڑھ جانا۔ أَفْضَلُ عَلَيْكَ۔ زیادہ
ہونا۔ کہا جاتا ہے "رَأَيْتُ صَفْهًا
قَدْ أَفْضَلَ عَلَيَّ صَفْهًا" میں نے ان
کی صفت کو دیکھا کہ ہماری صفت سے
بڑھ گئی ہے۔

أَفْضَلُ وَاسْتَفْضَلُ۔ مِنَ الشَّيْءِ۔
بقیہ چھوڑ دینا۔

تَفَضَّلُ۔ عَلَيْكَ۔ مہربانی کرنا۔ فضل کا
دعویٰ کرنا۔ الرَّجُلُ۔ شبِ خوابی کا
لباس پہننا۔ یا کام کاج کے لیے لباس
پہننا۔

تَفَاضُلًا۔ الرَّجُلَانِ۔ ایک کا دوسرے پر
فضل کا دعویٰ کرنا۔

الْفَضْلُ۔ احسان، زیادتی، بقیہ۔ کہا جاتا
ہے "فَلَا تُؤْتِ لِي مِلْكًا دَهْمًا
فَضْلًا عَنْ دِينَارٍ" فلاں آدمی درہم
کا مالک نہیں، چہ جائیکہ دینار کا مالک
ہو۔ گو یا کہ یوں کہا گیا لَا مِلْكًا دَرَهْمًا
فَكَيْفَ يَمْلِكُ دِينَارًا۔ یعنی درہم کا
مالک نہیں تو دینار کا کیسے ہو سکتا ہے
اور کہا جاتا ہے "فِي بَيْدِهِ فَضْلُ
الزَّمَانِ" اس کے ہاتھ میں لگام کا
کنارہ ہے۔ ج۔ فَضُولٌ۔

الْفُضُولُ۔ حاجت سے زائد مال۔ فَضُولُ
الْبَدَنِ۔ جو طبعی طور پر ہڈی کے منافذ
سے نکلے۔ جیسے پسینہ، بھڑک وغیرہ۔
الْفُضْلَةُ۔ فضل کا اسمہ۔ بقیہ شراب۔ ج۔

فَضْلَاتٌ وَفِضَالٌ۔ د۔ وَالْفُضْلُ
وَالْفُضَالُ وہ کپڑا جو نیند کے وقت یا
کام کرتے وقت پہنا جائے یا جس کو گھر
میں استعمال کیا جائے۔ کہا جاتا ہے۔
رَجُلٌ فَضْلٌ۔ کام کاج کے کپڑے
پہننے والا مرد۔ اور اسی طرح لَمْرَأَةٌ
فُضْلٌ۔ کام کاج کے کپڑے پہننے
والی عورت۔

الْفُضَالَةُ۔ بقیہ شے۔ ج۔ فَضَالَاتُ
الْفُضَالِ۔ صیغہ مبالغہ۔ بہت فضل والا۔
الْفُضَيْلَةُ۔ خوبی۔ زیادتی۔ فضل میں بلند
مرتبہ۔ ج۔ فَضَيْلٌ؟

الْفَاضِلُ۔ فَا۔ صاحب فضل۔ صاحب فضیلت
ج۔ تَصْحِيْبُ۔ فَاضِلُونَ۔ ج۔ تَكْسِيْرُ۔
فُضْلًا۔ مَوْنٌ فَاضِلَةٌ۔ ج۔ فَاضِلَةٌ
وَقَوَاضِلُ۔

الْفَاضِلَةُ۔ فضل میں بلند مرتبہ، بہت نعمت۔
قَوَاضِلُ۔ المال۔ مال کے منافع۔
الْفُضُولُ۔ صیغہ مبالغہ۔ بہت فضل کرنے
والا۔

الْفُضُولُ۔ مال غنیمت میں سے تقسیم کے بعد
جو بچ رہے۔

الْفُضُولِيُّ۔ بے فائدہ چیزوں میں مشغول ہونے
والا۔ دو شخصوں کے معاملہ میں خود بخود
دخل دینے والا۔

الْفُضَيْلُ۔ صاحب فضیلت۔ صاحب فضل
ج۔ فَضْلًا۔

الْأَفْضَلُ۔ فضل میں بڑھا ہوا۔ ج۔ تَصْحِيْبُ
أَفْضَلُونَ۔ ج۔ تَكْسِيْرُ۔ أَفْضِلُ۔
مَوْنٌ فَضْلِي۔ ج۔ فَضْلِيَّاتٌ وَفُضْلٌ۔
الْمُفْضِلُ وَالْمُفْضَلُ۔ بہت فضل والا۔

مُفْضَلٌ۔ وہ شخص جس کے متعلق فضل کا
حکم لگایا گیا ہو۔

الْمُفْضَلُ وَالْمُفْضَلَةُ۔ وہ کپڑا جو کام کرتے
وقت یا سوتے وقت پہنا جائے۔ یا

گھر میں پہننے کا کپڑا۔ ج۔ مَقَاضِلُ۔
الْمُفْضَالُ۔ بہت فضل والا۔ مَوْنٌ۔
مُقْضَاةٌ۔

فَضَارٌ، يَفْضُوْا فُضُوْا وَفَضَاءٌ۔
المكان۔ جگہ کشادہ ہونا۔ خالی ہونا۔
صفت (فایض)۔ ر۔ فُضُوْا الشَّجَرُ
بِالْمَكَانِ۔ درخت بہت ہونا۔

أَفْضَى أَفْضَاءً۔ المكان۔ جگہ وسیع ہونا۔
المكان۔ جگہ وسیع کرنا۔ اَلْيَهُ يَسِرُّهُ۔
بھید کو ظاہر کر دینا۔ بِلَهُ اِلَى كَذَا۔
پہنچانا۔ بَقْلَانِ۔ کشادہ میدان کی طرف
لے جانا۔ الرَّجُلُ۔ محتاج ہونا۔

الْفَاضِي۔ فَا۔ کشادہ، کہا جاتا ہے بِمَقَامِ
فَاضِي، کشادہ مقام کھلی ہوا۔ خالی۔
الْفَضَاءُ۔ وسیع زمین۔ میدان۔ ج۔ أَفْضِيَّةٌ
کہا جاتا ہے: مَكَانٌ فَضَاءٌ۔ کشادہ
مکان۔

الْفَضَاءُ۔ زمین پر جاری پانی۔ بسا اوقات
پائخانہ کے لیے کنایہ کرتے ہیں۔

الْفَضَا۔ خشک انگوڑ کا دانہ۔ سَمَلُهُ فَضَاً
اکیلا تیز۔ طَعَامٌ فَضَاً۔ بلاجلا کھانا۔
کہا جاتا ہے: "إِنَّ أَمْرَهُمْ فَضَاً"
عَلَيْهِمْ۔ یعنی ان کا کوئی امیر نہیں۔

فَطَاكَ دَفً، فُطَاً۔ تَوْرُنًا۔ بِلَوِ الْأَرْضِ۔
زمین پر پٹک دینا۔ بِلَهُ عَنْ دَابِلِهِ۔
رائے سے ہٹا دینا۔ الْقَوْمُ۔ ایسی چیز
لانا جو قوم کو پسند نہ ہو۔

فُطِيَ رَسٌ، فُطَاً۔ دھنسی ہوئی پیٹھ اور اُٹھرے
ہوئے سینہ والا ہونا۔ صفت أَفْطَاً۔
مَوْنٌ فُطَاةٌ۔ ج۔ فُطَاً۔

فَاطًا مَفَاطَةً۔ بِلَوِ الْأَرْضِ۔ زمین پر
پٹک دینا۔

أَفْطَاً أَفْطَاءً۔ فراخ حال ہونا۔ بذلتی ہونا
۔ فَلَانًا۔ کھانا۔

تَفَاطًا۔ سینہ بھارنا اور پیٹھ دھنسانا۔



التَّليْمُ شَاكَرٌ كَوَسْمٌ وَارْتَانَا -
فَاطَنَهُ مَقَاطِنَةً - بالكلام - سمجھانے کے
لیے کلام کو لوٹانا -

تَفْطَنُ - لِكَلَامِهِ - سمجھنا - کما جاتا ہے -
"تَفْطَنُ لِمَا أَقُولُ لَكَ" - یعنی جو لہجہ میں
تم سے کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو -

الْفِطْنَةُ - مَهَارَتٌ - سمجھ - جہ - فُطِنَ -
الْفَاطِنُ وَالْفَاطِنُ وَالْفَاطِنُ وَالْفَاطِنُ
وَالْفَاطِنُ وَالْفَاطِنُ - زیرک - سمجھ دار -
جہ - فُطِنَ وَفُطِنَ -

الْفُطُونَةُ - زیرک - سمجھ دار - ہوشیار -
فُطَارَنَ، يَفْطُوْنَ فُطُوًا - الدَّابَّةُ - جانور
کو تیز بنانا -
فُطِرَ دَسٌ، فُطَاظَةً وَفُطَاظًا وَفُطَاظًا -

سخت کلام اور بدخلق ہونا -
فُطِرَ دَسٌ، فُطَا وَافْتُظَ - جنگلوں میں اوجھ
کا پانی نچوڑنا - اورینا - اور یہ اس
طرز پر ہوتا ہے کہ اونٹوں کو سیراب
کر لیتے ہیں - اور پھر ان کے منہ کو باندھ
دیتے ہیں تاکہ جنگلی نہ کرنے پائیں اور
پھر جب پیاس لگتی ہے تو اونٹ کا
پیٹ چاک کر کے اوجھ کو نچوڑتے ہیں
اور پیتے ہیں -

الْفِطْ - مَص - بہت بدخلق اور سخت کلام -
جہ - أَفْطَاظًا - اوجھ کا پانی جو جنگلوں
میں اونٹ کی اوجھ سے نچوڑ کر پیا جاتا
ہے - جہ - فُطَاظًا وَفُطُوْتَظَ -

الْفُطْ - بری شکل و صورت کا ایک آبی درندہ
اور اس کے نر کے اوپر کے جڑے میں
دو لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں -

الْفُطَاظَةُ - مَكْرًا -
فُطِعَ دَسٌ، فُطَاظَةً - الامر - قباحت
بڑھ جانا - قباحت میں حد سے گزر جانا -
صفت فُطِعَ وَفُطِنَ -

فُطِعَ دَسٌ، فُطَاظَةً - اِرْنَاءُ - برتن کا بھر جانا -

جانا - فَلَانٌ بِالْأَمْرِ وَمِنْ الْأَمْرِ -
کام کو بڑا سمجھنا اور اس کے انجام دینے
کے لیے اعتماد نہ کرنا -

أَفْطَعَ الْأَمْرَ - قباحت بڑھنا - أَفْطَعْلَةً -
امر قبیح میں ڈالنا - أَفْطَعَ الْأَمْرَ قَبِيحٌ
پانا - أَفْطَعَ - أَمْرٌ قَبِيحٌ مِصِيبٌ
کا نازل ہونا -

فُطِعَ - الْأَمْرَ - قَبِيحٌ بَنَانًا مِبَالِغَةً كَرْنًا -
تَفْطَعُ وَاسْتَفْطَعُ الْأَمْرَ - قبیح پانا -
الْفُطِيْعُ - خوشگوار پانی یا آب زلال -

أَفْطَى أَفْطَاءً - الرجل - بدخلق ہونا -
فَعْفَعُ فَعْفَعَةً - بِالْغُلْجِ - بکریوں کو
فحفع کہہ کر ہانکنا - اور اس آواز کو
فحفع یا فحفع کہتے ہیں -

تَفْعَعُ - الرجلُ فِي أَمْرٍ - جلدی کرنا -
فَعَلَ دَفً، فَعَلًا - کرنا - بنانا اور اسم اس
سے الْفَعْلُ ہے -

فَعَلَ - الْبَيْتَ الشَّعْرِيَّ - تقطیع کرنا
اور وزن تقطیع کا ایسے اجزا سے ہو -
جس کا مادہ ف ع ل ہے -

الْفَعْلَ - ہو جانا - متاثر ہونا -
افْتَعَلَ - الشَّيْءَ - ایجاد کرنا - الْخَطَّ
جلساڑی کرنا - کہا جاتا ہے "افْتَعَلَ
عَلَيْهِ زُورًا وَكُذْبًا" - اس نے اس پر
جھوٹ و بہتان باندھا -

الْفَعْلُ - کام - جہ - فَعَالٌ وَافْعَالٌ - جہ
آفَاعِيلُ -
الْأَفَاعِيلُ وَالتَّفَاعِيلُ - علم عروض کی
اصطلاح میں اشعار کے اوزان - اور وہ
چار ہیں - فَعُولٌ مَقَاعِلٌ مَقَاعِلٌ
وَقَاعِلَاتٌ - اور لقیہ اوزان ان ہی
چار سے ماخوذ ہیں -

الْفَعْلَةُ - فعل کا اسم مرہ -
الْفَعْلَةُ - عادت -
الْفَعَالُ - اچھا فعل کرم - اور کبھی شرم بھی

استعمال کیا جاتا ہے -
الْفَعَالُ - بکسر الفاء - فعل کی جمع، جس کو
بہت سے آدمی کریں - فَعَالُ النَّاسِ
کہاڑے کا دستہ - جہ - فَعْلٌ -
الْفَاعِلُ - فا - جہ - فَاعِلُونَ وَفَعْلَةٌ -
مؤنث فاعِلَةٌ - جہ - فَاعِلَاتٌ وَ
فَوَاعِلٌ -


المُفْتَعَلُ - مفع - ہر وہ چیز جو بغیر مثال سابق
کے بنائی جائے - کہا جاتا ہے "جَاءَ
فَلَانٌ بِالْمُفْتَعْلِ" - یعنی فلاں نے بڑا
کام کیا - شَعْرٌ مُفْتَعَلٌ - عجیب و
غریب شعر -

فَعَمَدٌ، فَعَمَدٌ وَفَعَمَدٌ وَفَعَمَدٌ -
الْإِنَاءُ - برتن بھرنا - أَفَعَمَ الْمَشْكُ
الْبَيْتُ - مکانا - خوشبو سے گھر کو بھر
دینا - الرَّجُلُ - خوشی سے بھر دینا -
خوش کرنا -

فَعَمَدٌ، وَفَعَمَدٌ، فَعَمَدٌ وَفَعَمَدٌ -
الرجُلُ - غضبناک کرنا -
فَعَمَدُكَ، فَعَمَدَةٌ وَفَعَمَدَةٌ - الْإِنَاءُ
إِوَالَسَاعِدُ - بھر جانا - صفت فَعَمَدٌ وَ
فَعَمَدٌ (لام کی زیادتی کے ساتھ) کہا
جاتا ہے "هُوَ فَعَمَدُ الْأَعْمَاءِ" وہ
تو مہند ہے -

إِفْعَوْعَمَ - بھر جانا - بہہ پڑنا -
سَيْلٌ مُفْعَمٌ - بھر دینے والا سیلاب -
الْأَفْعَمُ - بھرنے کی وجہ سے پھلکنے والا -
فَعْيٌ تَفْعِيَةٌ - الْجَمَلُ - اونٹ پر سانپ
کی شکل کا نشان بنانا -

تَفْعَى - بدخلق میں سانپ کی طرح ہونا -
الْفَاعِي - غصہ میں جھگ نکالنے والا -
الْفَاعِيَّةُ - فاعی کا مؤنث - بچہ عورت
حنا کے پھول -
الْأَفْعَى - بڑا سانپ - غیث قسم کا سانپ -
اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر ایک





زہر بلا ہوتا ہے۔ جر۔ آفاریج۔

الافارجی۔ رگیں۔ جوین ران کی رگ سے پھیلی ہیں۔

الافجوان۔ زسانپ۔

ارض مفعاة۔ سانپوں والی سرزمین۔

الافجاء۔ خوشبوئیں۔

المفعاة۔ سانپ کی شکل کا نشان۔

قم دن، فحاة۔ الطیب۔ خوشبو ممکن۔

بھڑکنا۔ کہا جاتا ہے۔ "فَعَتْنِي الْمَائِحَةُ"

فَعَا۔ یعنی مجھ پر بہترین خوشبو مکی۔

فَعُورَن، فَعُورَا۔ فَاك۔ منہ کھولنا۔

فَعُورَ الْفَعُورِ۔ فُوَا۔ منہ کھلنا۔ الْفَعُورِ

النَّوْرِ۔ کلی کھلنا۔

الْفَعُورِ۔ صم۔ گلاب کا پھول۔ جبکہ وہ کھل جائے

الْفَعُورِ۔ فَعُورَ اس ممرۃ کہا جاتا ہے۔ "وَلَيْدُ"

بِالْفَعُورِ"۔ یعنی ثریا کے طلوع ہونے کی

ابتداء میں پیدا ہوا۔ اور یہ جاڑے کے زمانہ

میں ہوتا ہے۔

الْفَعُورِ۔ وادی کا دانہ۔ جر۔ فَعُورُ۔

الْفَاغُورِ۔ ایک چھوٹے سے جانور کا نام۔

الْفَاغُورِ۔ ایک قسم کی خوشبو۔ کباب۔

بزخ نیلوفر۔

الْمَفْعُورِ۔ وسیع زمین۔ پہاڑ کا شکاف۔

غار سے چھوٹا۔

فَعَمَ دَن، فَعَمًا دَفْعُومًا۔ الطیب

فلانا۔ ناک کو خوشبو سے بسا دینا۔

(د۔ دَفَعَمَ مَفَاعَمَةً)۔ فلانا۔

بوسہ لینا۔

فَعَمَ دَن، فَعُومًا وَتَفَعَمَ۔ الْوَرْدُ

پھول کھلنا۔

فَعَمَ دَن، فَعَمًا۔ بالشیء مشتاق ہونا

حریص ہونا۔ بالمکان۔ اقامت کرنا۔

أَفْعَمَ۔ المکان۔ گھر کو خوشبو سے بسا دینا

۔ الزناء۔ برتن کو بھردینا۔ الدجل۔

خوشی سے بھردینا۔

تَفَاعَمًا۔ ایک دوسرے کو بوسہ دینا۔

الْفَعَمَ۔ المکان۔ خوشبو سے بھر جانا۔

وَأَفْتَعَمَ۔ الزکام۔ زکام اچھا ہونا۔

الْفَعَمُ۔ صم۔ کھانے کا وہ حصہ جو دانتوں

کے درمیان سے نکالا جائے۔

فَعَمَةُ۔ الطیب۔ خوشبو کی بھڑک۔

الْفَعَمُ وَالْفَعَمُ۔ مِنْهُ۔ ٹھوڑی مع

جبروں کے۔

الْفَعَمُ مشتاق۔ حریص۔ کہا جاتا ہے۔

"كَلْبٌ فَعَمٌ عَلَى الصَّيْدِ"۔ کت

شکار کا حریص ہے۔

الْمَفْعَمُ۔ صفع۔

الْمَفْعُومُ۔ زکام زدہ۔ شئی مَفْعُومٌ۔

خوشبو سے بسایا ہوا۔

فَعَا يَفْعُو فَعُورًا۔ الامر۔ پھیلنا۔

الزَّرْعُ۔ کھیتی کا خشک ہونا۔

أَفْعَى۔ الرِّيحَانُ۔ شکوفہ دار ہونا۔ فلان

غنا کے بعد محتاج ہونا، حسن کے بعد

بد صورت ہونا۔ طاعت کے بعد نافرمان

ہونا۔ أَفْعَا۔ غضبناک کرنا۔ أَفْعَى

الشَّجَرُ۔ درخت میں کلی کھلنا۔

الْفَعُورُ۔ حنا کا پھول۔

الْفَاغِيَةُ۔ حنا کی کلی۔ اور کہا گیا ہے کہ

فاغیہ اس پھول کو کہتے ہیں جو حنا کی

شاخ کو الٹا لگانے سے نکلتا ہے اور

وہ حنا کے پھول سے زیادہ اچھا ہوتا ہے

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فاغیہ ہر خوشبودار

کلی کو بھی کہتے ہیں۔

الْفَعُورَةُ۔ خوشبو۔ کہا جاتا ہے۔ "فَعُورَةُ

الطَّيِّبِ"۔ خوشبو کی بھڑک۔

فَقَارَت، فَقَاً وَفَقَاً تَفَقُّتَةً۔ الدُّمَلُ

پھوٹے کو چیرنا۔ شکاف کرنا۔ الْعَيْنُ

آنکھ پھوٹنا۔

تَفَقَّأً وَانْفَقَّأً۔ شکاف ہونا۔ پھوٹنا۔

الْفَقَى۔ وہ باریک سی بھلی جو جنین کے سر

کے ارد گرد ہوتی ہے اور ولادت کے وقت

بھٹ جاتی ہے۔ جر۔ فُقُوءٌ۔

الْفُقَاةُ وَالْفُقَاتَاةُ۔ بمعنی الْفَقَى۔

الْفَقَى وَالْفَقِيَّةُ۔ پتھر کا گڑھا۔ سخت زمین کا

گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے۔

فَقَحْرٌ، فَقَحْرًا وَفَقَحْرَةً۔ الْجَرُورُ۔ کتے

کے پٹے کی آنکھیں کھلنا۔ انبثات۔

نباتات کا کلی دار ہونا۔ شکوفہ کھلنا۔

تَفَقَّحَ۔ کھلنا۔ شر کے لیے آمادہ ہونا۔

تَفَقَّحَ۔ القوم۔ ایک دوسرے کی طرف

پیٹھ کرنا۔

الْفَقْحَةُ۔ مِنَ النَّبَتِ۔ کلی۔ دُہر کا حلقہ۔

جر۔ فِقَاحٌ۔

الْفَقَاحَةُ۔ پتھیلی۔

الْفُقَاةُ۔ مِنْ كُلِّ نَبَتٍ۔ کلی۔ کہا جاتا ہے

"فَلَا تَمُتْ فِقْحًا لِلشَّيْءِ"۔ یعنی فلاں

شر کے لیے آمادہ ہے۔

فَقَدَّ (رَض) فَقَدَّ وَفَقَدَّ (رَض) فَقَدَّ

وَفَقُودًا وَفَقُودَةً۔ گم ہونا معدوم

ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ "مَا أَفْتَقَدْتُ"۔

مُذْ أَفْتَقَدْتُ"۔ یعنی جب سے میں نے

اس کو گم کیا ہے، تلاش نہیں کیا۔

أَفْتَقَدْتُ۔ الشَّيْءُ۔ گم کرنا۔

تَفَقَّدْتُ وَافْتَقَدْتُ۔ گمشدہ کی تلاش کرنا۔

تَفَقَّأْتُ۔ القوم۔ بعض کا بعض کو کھونا۔

الْفَاقِدُ۔ فا۔ وہ عورت جس کا شوہر یا لڑکا

مر گیا ہو۔

الْفَقِيْدُ۔ گمشدہ۔ کہا جاتا ہے۔ "مَاتَ غَيْرُ

فَقِيْدٍ"۔ یعنی وہ مر گیا

اور اس کے مرنے کی کوئی پروا نہیں۔

فَقَرَّ دَن، فَقْرًا وَفَقْرَةً۔ الْخَوْرُ۔ موتی پر رونے کے لیے بیندھنا

۔ الشَّيْءُ۔ کاٹنا۔ اثر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔

فَقَرَّتْهُ وَفَقَرَّتْهُ الدَّاهِيَةُ"۔ اس

پر ایسی مصیبت نازل ہوئی جس نے اس کی

ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا۔ الْفَقِیْرُ زین کو پودا لگانے کے لیے کھودنا۔
 فَقْرٌ دس، فَقْرًا۔ ریڑھ کی ہڈی میں مرض یا شکستگی کی وجہ سے درد ہونا۔ صفت
 فَقِیْرٌ وَفَقْرٌ وَمَفْقُوْرٌ
 فَقْرٌ دس، فَقَارَةٌ دافَقْرٌ مفلس ہونا۔
 لافَقْرٌ لایق۔ محتاج ہونا۔ صفت
 فَهْیْرٌ ج۔ فَقْرًا۔ مرنٹ فَهْیْرَةٌ ج۔ فَهْیْرَاتٌ وَفَقَارٌ وَفَقْرًا۔
 اَفْقَرٌ مفلس بنانا۔ اَلصَّیْدُ شکار کا اپنی جانب سے موقع دینا۔ اَلارَضُ زمین کو کھیتی کرنے کے لیے مستعد دینا۔
 اَظْهَرَ مَهْرًا۔ سواری کے لیے بچھرا مستعد دینا۔ اَفْقَرُ اَظْهَرَ الْمَهْرَ۔ بچھیرے کا سواری کے قابل ہونا۔
 تَفَقَّرَ۔ فقیری ظاہر کرنا۔
 الْفَقْرُ مفلسی۔ غم ج۔ فَقُوْرٌ وَمَفَقَرٌ۔ بھٹن کاٹ ج۔ اَفْقَرٌ۔
 الْفَقْرُ مفلسی۔ جانب ج۔ فَقْرٌ۔
 الْفَقْرَةُ۔ ریڑھ کی ہڈی ج۔ فَقْرٌ۔
 الْفَقْرَةُ۔ ریڑھ کی ہڈی ج۔ فَقْرٌ وَفَقْرَاتٌ۔
 الْفَقَارَةُ۔ ریڑھ کی ہڈی ج۔ فَقَارٌ۔
 ذُو الْفَقَارِ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار کا لقب ہے۔ فَقَارٌ الْجَوَارِیُ بُرُجِ جِوَارِ کے ستارے۔
 الْفَقْرَةُ۔ فقر کا اسم نوع۔ نشان، پہاڑ یا کسی اور چیز کا۔ کلام یا جملہ کا لطیف نکتہ قصیدہ کا عمدہ شعر ج۔ فَقْرٌ۔
 الْفَقْرَةُ۔ قُرْب۔ کہا جاتا ہے۔ هُوَ مِنْكَ فَقْرَةٌ یعنی وہ تم سے قریب ہے۔
 الْفَقْرَةُ۔ گڑھا۔ گریبان۔ امر عظیم ج۔ فَقْرٌ وَفَقْرًا۔
 الْفَقَارِی۔ فقار ظہر کی طرف منسوب۔
 الْفَقَارَةُ۔ سخت مصیبت جو گو یا کہ ریڑھ کی

ہڈی کو توڑ دے۔ ج۔ فَوَاقِرٌ۔
 الْفَقِیْرُ مفلس۔ محتاج۔ مرنٹ۔ فَهْیْرَةٌ ج۔ فَهْیْرَاتٌ وَفَقَارٌ وَفَقْرًا۔
 حوض کی نالی۔ گڑھا جس میں کھجور کا پودا لگایا جائے۔ عوام اسے بیش کتے ہیں۔
 ترتیب وار کنویں جن کا پانی ایک دوسرے میں جاتا ہو۔ کَرِیْمَةٌ فَهْیْرَةٌ کھدا ہوا کنواں۔
 الْفَقِیْرُ مصیبت۔
 الْمَفْقَرُ قوی مرد۔ سواری کے قابل بچھیرا۔
 الْمَفَقِرُ۔ اسباب فقر۔ اس کے لیے کوئی واحد نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ فقر کی جمع ہے۔ خلاف قیاس جیسے حَسَنٌ کی جمع تَحَاسِنٌ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مَفْقَرَةٌ بمعنی فَقْرٌ کی جمع ہے۔
 الْمَفْقَرُ مضبوط ریڑھ کی ہڈی والا مرد۔
 کہا جاتا ہے۔ "سَيْفٌ مَفْقَرٌ" وہ تلوار جس کی پشت پر ہموار خراشے ہوں۔
 رَجُلٌ مَفْقَرٌ۔ فرمانبردار مرد۔
 فَقَسَ رَضٍ، فَقَسًا۔ الْبَیْضَةُ۔ انڈے کو ہاتھ سے توڑنا۔ پھاڑنا۔ اَلطَّائِرُ بَیْضَةٌ۔ پرندہ کا انڈے کو توڑنا اور بچہ نکالنا۔ اَلْحَبْوَانُ قتل کرنا۔ اَلرَّجُلُ بالوں کو پیر کر پیچھے گھیٹنا۔ اَعْنِ الْأَمْرِ زبردستی ہنسنا۔ فَقَسَ الشَّیْءَ۔ چھین لینا۔
 فَقَسَ فَقُوْسًا۔ اچانک مرنا۔ کودنا۔
 تَفَقَّسَ وَانْفَقَسَ۔ الشَّیْءُ اَلطَّحَنَانُ تَفَاقَسَ۔ اَلرَّجُلَانِ ایک دوسرے کے بالوں کو پیر کر پیچھے گھیٹنا۔
 اَلْفَقَاسُ۔ جوڑوں کا مرض۔
 اَلْفَقُوْسُ۔ خربوزہ کی ایک قسم۔ واحد فَقُوْسَةٌ۔
 اَلْمَقَاسُ۔ جال کی کڑھی جو پرندے پر اُلٹ جاتی ہے۔

فَقَسَ رَضٍ، فَقَسًا۔ الْبَیْضَةُ۔ انڈے کو ہاتھ سے توڑنا۔
 فَقَصَ رَضٍ، فَقَصًا وَفَقَصَ۔ الْبَیْضَةُ دُخُوْهَا۔ انڈے وغیرہ کو ہاتھ سے توڑنا پھاڑنا۔ صفت مفعولی۔ فَهْیْرَةٌ وَ مَفْقُوْصَةٌ۔
 تَفَقَّصَتْ وَانْفَقَّصَتْ۔ الْبَیْضَةُ عَنِ الْفَرْخِ۔ انڈہ لُوط کر بچہ کا ظاہر ہونا۔ فقط۔ یہ مرکب کلمہ ہے جو فاء اور قط سے مرکب ہے اور اس کے معنی لاغیر کے ہیں یعنی صرف، بس۔
 فَقَطًا۔ اَلْحِسَابُ۔ تعین مقدار کے بعد فقط لکھنا تاکہ کوئی کچھ بڑھا نہ سکے۔
 فَقَعٌ رَضٍ، فَقَعًا وَفَقُوْعًا۔ لَوْنُهُ رَنگ کا صاف اور خالص ہونا یا گہرا رنگ ہونا۔ اَلرَّجُلُ سِخْتٌ غَرْمٍ سے مرجانا۔ اَلْغُلَامُ۔ لڑکے کا بڑھنا۔ رَضٍ فَقَعًا الشَّیْءَ۔ چُرانا۔ کہا جاتا ہے فَقَعْتُهُ اَلْفَوَاقِعُ۔ یعنی اس کو مصائب نے ہلاک کر دیا۔
 فَقَعٌ دَسٍ، فَقَعًا۔ سِرَخ رَنگ ہونا۔ گہرا رنگ ہونا۔ اور اس کا استعمال اکثر زرد رنگ کے لیے ہوتا ہے۔
 فَقَعٌ بے معنی گفتگو کرنا۔ اَصَابَ لَعْلًا۔ انگلیاں چٹھانا۔ اَلْوَرْدُ عِکَاب کی پتی کو ایک ایک ہاتھ پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے مار کر پھاڑنا اور آواز نکالنا۔ اَلْاِدِیْحُ چمڑے کو سرخ رنگنا۔
 اَفْقَعٌ۔ محتاج ہونا۔ برا حال ہونا۔
 تَفَاقَعَتْ۔ عِیْنًا۔ آنکھوں کا سفید ہونا۔ اِنْفَقَعَ۔ پھٹنا۔
 اَلْفَقْعُ وَ اَلْفَقْعُ۔ سانپ کی پھتری جو نرم اور سفید ہوتی ہے۔ ج۔ اَفْقَعٌ وَفَقُوْعٌ وَفَقْعَةٌ۔ اَفْقَعٌ۔ محتاجی۔
 اَلْفَاقِعُ۔ فاخا صاف رنگ اور مشہور

یہ ہے کہ یہ صفت کے طور پر زور دینا
کے لیے مستعمل ہے۔

الْفَاقِعَةُ: فاقع کا مؤنث مصیبت۔ جہ
فَوَاقِعٌ۔

الْأَفْقَعُ: بہت زیادہ سقیمہ مؤنث فُقْعَاءُ
جہ۔ فُقْعٌ۔

الْفَقِيعُ: مرد سرخ فام کبوتر کی ایک قسم۔
واحد۔ فَقِيعَةٌ۔

الْفَقْعُ: سخت سپیدی۔
لَوْنٌ فَقَاعِيٌّ: گہرا رنگ کہا جاتا ہے أَبْيَضُ

فُقَاعِيٌّ: بہت سپید۔
الْفَقَاعُ: بڑا سخت تھیلہ۔

الْفَقَاعُ: بحر کی شراب۔
الْفَقَاعِيٌّ: جو کی شراب پیچنے والا۔

الْفَقَاعَةُ: بلبہ۔ جہ۔ فُقَاعِيٌّ۔
الْمُقَقَّرُ: نوکدار موزہ۔

الْمُقَقَّعَةُ: ایک کالے رنگ کا پرندہ جس کی
دُم کی جڑ سفید ہوتی ہے۔

فَقَعَنَ فُقُقَةً: سخت محتاج ہونا۔
الْكَلْبُ: کتے کا ڈر کی وجہ سے بھونکنا۔

(وَلَفَقَفَنَ) الرَّجُلُ فِي كَلَامِهِ:
حلق سے نکالنا۔

الْفُقْفُقُ وَالْفُقْفُقَاتُ: بے وقوف۔
بکواس کرنے والا۔

فَقَلَ رَجُلٌ، فَقَلَّ: البَيْدَسُ: کھلیاں میں
غلہ بکھیرنا۔

أَفْقَلَ: المكانُ: سرسبز ہونا۔
الْفَقْلُ: مم۔ سرسبز۔

الْمُقَقَّلَةُ: غلہ بکھینے کا آلہ جہ مَقْفَلٌ
فَقَمَ رَجُلٌ، فَقَمًا وَفَقَمَ: الرَّجُلُ أَوْ

الْكَلْبُ: ناک پکڑنا۔
فَقَمَ رَجُلٌ، فَقَمًا: الاناءُ: پُر ہونا۔ کہا

جاتا ہے: "أَكَلَ الرَّجُلُ حَتَّى فَقِمَ"
مرد نے کھایا یہاں تک کہ تخم ہو گیا۔

فَقَمًا وَفَقَمًا: الرَّجُلُ: سامنے کے
دانتوں کا ہلکا ہونا۔

دانتوں کا ہلکا ہونا۔ صفت أَفْقَمُ۔
مؤنث فُقْمَاءُ۔ جہ۔ فُقْمٌ۔ الرَّجُلُ

أَفْقَمَ: فُقْمًا وَفُقْمًا وَفُقْمًا وَفُقْمًا
(رَجُلٌ) فُقْمًا وَفُقْمًا: الْأَمْرُ۔

عظیم ہونا اور ناہموار ہونا۔ صفت
أَفْقَمُ۔ فُقْمٌ: الشیءُ: وسیع ہونا۔

الْفُقْمُ وَالْفُقْمُ: کتے کی تھوڑی کاکنارہ۔
ایک جڑ یا دونوں جڑے۔

الْفُقْمُ: سمجھ دار آدمی جو اپنے مقابل پر
غالب آئے۔

الْفُقْمُ: منہ۔
الْفُقْمَةُ وَالْفُقْمَةُ: ایک قسم کی مچھلی جو

کہ سمندروں میں ہوتی ہے اور یہ دودھ
دینے والے جانوروں میں شمار ہوتی ہے۔

فَقَهَ رَجُلٌ، فَقَهًا وَفَقَهًا: الشیءُ أَوْ
الْكَلَامُ: سمجھنا۔ کہا جاتا ہے: "فَقَهَ

عَنْهُ" الْكَلَامُ: اس نے اس کی گفتگو کو
سمجھ لیا۔ وَفَقَهَ: الرَّجُلُ: علم فقہ

سیکھنا اور حاصل کرنا۔
فَقَهَ رَجُلٌ، فَقَهًا: الرَّجُلُ: علم میں

غالب ہونا۔
فَقَهَ وَأَفَقَهَ: فَلَانًا: کھانا۔ سمجھانا۔

فَقَاهُ: فَلَانًا: فقہ میں غالب ہونا۔
الْفَقْهُ: کسی شے کا جاننا اور سمجھنا۔ احکام

شرعیہ کا علم۔ ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ
حذاقت۔ زیر کی۔

الْفَقْهُ وَالْفَقْهُ: الْفَقِيْهُ: بہت
سمجھ دار ذکی۔ عالم۔ علم فقہ کا ماننے والا۔

جہ۔ فُقْعَاءُ: مؤنث فُقْعَةٌ وَفُقْعَةٌ
جہ۔ فُقْعَاءُ وَفُقْعَاءُ:

الْمُسْتَفْقَهَةُ: نوہ کرنے والی کا ساتھ
دینے والی عورت۔

فَقَا يَقْفُو فُقْوًا: آثرہ: کسی کے نشان
قدم پر جانا۔ پیچھے جانا۔

فَقَا يَقْفُو فُقْوًا: آثرہ: کسی کے نشان
قدم پر جانا۔ پیچھے جانا۔

فَقْوَةُ: السَّهْمُ: سو فارتیر۔ جہ۔ فُقِي۔
فَكَّ (رَجُلٌ) فَكًّا وَفَكًّا: الرَّجُلُ: بہت

بوترھا ہونا۔
فَكَّ (رَجُلٌ) فَكًّا: الشیءُ: جدا جدا کرنا۔

الْعُقْدَةُ: گرہ کھولنا۔ الْعُقْدَةُ: ہڈی
کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ الْخُتْمُ

مہر کو توڑ دینا۔
فَكَّ (رَجُلٌ) فَكًّا وَفَكًّا: الْإِسِيرُ

قیدی کو چھڑانا۔ يَدٌ: ہاتھ کھولنا۔
فَكَّ الْإِدْغَامُ: ادغام کو اٹھا دینا۔ جیسے

لَا تَمْدُدْ: لَا تَمْدُدْ: میں۔
فَكَّ (رَجُلٌ) فَكًّا وَفَكًّا: الْإِسِيرُ: الِرهْنُ

رہن چھڑانا۔
فَكَّ (رَجُلٌ) فَكًّا: الْإِسِيرُ: الِرهْنُ

بہت سے ہٹ جانا۔
فَكَّ (رَجُلٌ) فَكًّا وَفَكًّا: سُرَّت اور

بیوقوف ہونا۔
أَفَكَ: الْخَطْبِيُّ مِنَ الْجَبَالَةِ: بہن کا جال

میں سے نکل بھاگنا۔
فَكَّ كَتِفَهُ: عَلِيٌّ: علیہ السلام: چھڑانا۔

تَفَكَّكَ: الْكَلْبُ: الگ ہونا چھٹنا۔ تَفَكَّكَ
الْمُخَنَّنُ: خفیف الحركات کی چال چلنا۔

انْفَكَ: جدا ہونا کھلنا۔ الْعَبْدُ: غلام کا
آزاد ہونا۔ کہا جاتا ہے: "مَا أَلْفَكَ

يَفْعَلُ كَذَا: وہ ہمیشہ ایسا کرتا رہا۔ یہ
افعال ناقصہ میں سے ہے اور ما حروف

نفی اس کے لیے لازم ہے۔
اسْتَفَكْتُ: رہائی طلب کرنا۔

الْفَكُّ: مم۔ جہ۔ فَكُّوكُ:
الْفَكَّاءُ وَالْفَكَّاءُ: وہ شے جس سے رتن

دیگر کو چھڑایا جائے۔
الْفَكَّاءُ: فا۔ بہت بڑھا۔ بہت بیوقوف۔

جہ۔ فِكْلَةٌ وَفِكْلَةٌ:
الْفَكَّاءُ: صیغہ بالغہ۔

الْفَكَّاءُ: وہ شخص جس کی ہڈی بوڑھے سے ہٹ



گئی ہو۔ مَوْنَتْ فَمَاؤُ۔ جہ۔ قَلْتُ۔
فَلَا رَضَ فَلَکَؤُا فَلَکَؤُا فَلَکَؤُا فَلَکَؤُا
تَفَلَکَؤُ۔ فی الامور۔ سوچنا۔ غور کرنا۔

تامل کرنا۔

الفکؤ۔ غور و فکر۔ جہ۔ افکار۔ کہا جاتا ہے۔

”مَا لِي فِي الْأَمْرِ فَلَکَؤُا فَلَکَؤُا“ یعنی

مجھے اس معاملہ میں کوئی حاجت نہیں۔

”وَلِي فِي الْأَمْرِ فَلَکَؤُا“ اور میرے لیے

اس معاملہ میں غور و فکر ہے۔

الفکؤة والفکؤی۔ کسی معاملہ میں سوچ

بچار۔ غور و فکر۔ جہ۔ فَلَکَؤُ۔

الفکؤیو والفکؤیو۔ بہت سوچ بچار

کرنے والا۔

فَلَکَؤُ (رس) فَلَکَؤُا فَلَکَؤُا۔ الرجل۔ غم یا

غمضہ کی وجہ سے سر جھکانا۔

فَلَکَؤُ (ف) فَلَکَؤُا فَلَکَؤُا۔ جانا۔ کہا جاتا ہے

”ذَهَبَ فَمَا يَدْرِي آيْنَ فَلَکَؤُا“ وہ

گیا لیکن نہ معلوم کہاں گیا۔

الفَلَکَؤُ۔ کھانسی۔

رَأَيْتُ كَلًّا۔ فی فَعْلِهِ۔ کام کو اچھی طرح

انجام دینا۔

الْأَفْکَلُ۔ لوگوں کی جماعت۔ کپکپی۔ کہا جاتا

ہے۔ أَخَذَهُ أَفْکَلٌ۔ جبکہ خوف یا

سردی سے کانپنے لگے۔ ”وَجَاعَ فِي الْقَوْمِ

بِأَفْکَلِهِمْ“ دباؤ یا کھینچنے سے۔ یعنی

میرے پاس تمام قوم آئی۔

المَفْکُولُ۔ کپکپی والا۔

فَلَکَنَ رَن، فَلَکَنَّا۔ فی الکِذْبِ۔ جھوٹ

بولنے میں مبالغہ کرنا۔

تَفَلَّسَنَ۔ تعجب کرنا۔ فکر کرنا۔ افسوس کرنا۔

پشیمان ہونا۔

فَلَکَؤُ (رس) فَلَکَؤُا فَلَکَؤُا۔ خوش طبعی۔

سنسنے ہنسنے والا ہونا۔ صفت فَلَکَؤُا

وَفَلَکَؤُا دَفَلَکَؤُا۔ منہ۔

تعجب کرنا۔ للشیء۔ متعجب ہونا۔ کہا

جانتا ہے۔ ”لَوْ سَمِعْتَ حَدِيثَ

فُلَانٍ لَمَا فَلَکَؤُتَ لَهُ“ اگر تم فلاں

شخص کی بات سنو تو متعجب نہیں

ہو گے۔

فَلَکَؤُ۔ الرجل۔ میوہ کھانا۔ کلام شیریں کر

کے خوش کرنا۔

تَفَلَکَؤُ۔ میوہ کھانا۔ بالشیء۔ لذت حاصل

کرنا۔ بالرجل۔ فائدہ اٹھانا۔ مِنْهُ

تعجب کرنا۔ پشیمان ہونا۔ بِفُلَانٍ

غیبت کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ”تَرَکْتُ

الْقَوْمَ يَتَفَلَّسُونَ بَعْدَ فُلَانٍ“

یعنی میں نے لوگوں کو ایسی حالت میں

چھوڑا کہ وہ فلاں کی غیبت سے لذت

حاصل کر رہے تھے۔

قَالَهُ مُفَاكِهَةً۔ الرجل۔ مزاح کرنا۔

تَفَلَکَؤُ۔ القوم۔ آپس میں خوش طبعی کرنا۔

مذاق کرنا۔

الفُکَاهَةُ وَالْفُکَيْهَةُ۔ خوش طبعی

الْأَفْکُوهُةُ۔ خوش طبعی تعجب انگیز۔

الفَلَکَؤُ۔ خوش طبع۔ خود پسند۔ اکرط باز۔

میوہ خور۔ مَوْنَتْ فَلَکَؤُا۔ جہ۔

فَلَکَؤَاتُ۔

الفَلَکَؤَةُ۔ فَا۔ میوہ والا۔ خوش طبع۔

الفَلَکَؤَةُ۔ فَلَکَؤُ کا مَوْنَتْ۔ ہر قسم کا بھل۔

جس کو کھا کر لذت حاصل کی جائے۔ جہ۔

قَوْلُهُ فَلَکَؤُهُ الدِّشْتَاءُ۔ موسم سرما

کے بھل جو کہ زیادہ عمدہ ہوتے ہیں۔

الْأَفْکَؤُ۔ اسم تَفْصِيلُ۔ کہا جاتا ہے۔ ”فُلَانٌ

مِنْ أَفْکَؤِ النَّاسِ“ یعنی فلاں شخص

بہت مزاح کرنے والا ہے۔

الْفَلَکَؤَانِي۔ میوہ فروش۔

فَلَّ رَن، فَلَّؤُا وَفَلَکُ۔ السَّيْفُ۔ تلوار کو

دندانہ دار کرنا۔ القوم۔ قوم کو

شکست دینا۔

فَلَّ رَضَ فَلَّؤُا عَنْ فُلَانٍ عَقْلَهُ۔ عقل

زائل ہونے کے بعد لوٹ آنا۔

أَفْلُ۔ الرجل۔ مال ضائع ہونا۔ القوم۔

قوم کا ہنجر زمین پر پہنچنا۔

تَفَلَّلَ وَانْفَلَّلَ۔ القوم۔ قوم کا شکست

کھانا۔ (و) انْفَلَّلَ، السَّيْفُ۔ تلوار کا

دندانہ دار ہونا۔

اسْتَفَلَّلَ۔ السَّيْفُ۔ تلوار کو دندانہ دار کرنا

۔ الشیء۔ کسی چیز کا ادنیٰ حصہ لینا۔

رَجُلٌ قَلٌّ وَقَوْمٌ قَلٌّ۔ شکست خوردہ۔

واحد اور جمع برابر ہیں اور کبھی أَفْلَانِ وَ

فُلَانٍ جمع لگتے ہیں۔

الْقَلُّ۔ مسم۔ تلوار کی دھار میں ٹوٹنا یا دندانہ

جہ۔ فُلُوؤُ۔ وہ شے جو کسی چیز سے گسے

سیسے لوبے کا برادہ اور لک کی چوڑکاری۔

جماعت۔ جہ۔ فُلُوؤُ وَفُلَانٌ۔

الْقَلُّ۔ خشک زمین جس میں کچھ نہ اُگے۔ کہا

جاتا ہے۔ ”فُلُوؤُ قَلٌّ مِنَ الْخَيْرِ“ وہ

خیر سے خالی ہے۔ جہ۔ قَلٌّ وَافْلَانٌ۔

الْقَلُّ وَالْفَيْلَةُ۔ خشک زمین جس میں کچھ نہ

اُگے۔ جہ۔ قَلَّوِیْ۔

الْقَلُّ۔ پھول چڑھنے کے مشابہ ہوتا ہے اور

اس کی خوشبو تیز ہوتی ہے۔

الْقَلُّ۔ تلوار کی دھار کا کندہ ہونا۔

الْقَلَّةُ۔ تلوار کی دھار کا دندانہ۔

سَيْفٌ قَلِيلٌ وَأَفْلٌ وَمَفْلُوؤٌ وَمُفَلَّلٌ

کندہ تلوار۔ دندانہ دار تلوار۔

لَيْتِيَّةٌ قَلِيٌّ۔ شکست خوردہ قوم۔

الْقَلِيلُ۔ جماعت۔ رُبُّ الْقَلِيلِ کُلُّهُ۔ مجتمع بال۔

قَلَّتْ رَضَ قَلَّتْنَا وَقَلَّتْ۔ رہا کرنا۔ چھوڑنا

قَلَّتْ وَأَقَلَّتْ وَتَقَلَّتْ وَأَقَلَّتْ۔ رہا

ہونا۔ چھوڑنا۔ أَقَلَّتْ وَتَقَلَّتْ۔ رہا

شیء۔ جھگڑا کرنا۔ تَقَلَّتْنَا عَلَيْنَا۔

کو دنا۔ حملہ کرنا۔

قَالَتْ فُلَانًا وَمُفَالَةً۔ اپنا کہا۔ انا۔ پانا۔

قَلَّتْ وَأَقَلَّتْ وَتَقَلَّتْ وَالْقَلَّتْ۔ رہا ہونا

ف

چھوٹا۔ اُفَلَّتْ وَتَفَلَّتْ اِلَى شَيْءٍ
بھگڑ کرنا۔ تَفَلَّتْ عَلَيْهِ۔ کو دنا۔
فَالْتَهُ فَلَانًا وَمَقَالَتَهُ۔ اچانک آنا۔
پانا۔

اُفَلَّتْ۔ الکلام۔ فی البدیہہ کہنا۔
الامر۔ بلا توقف کام کرنا۔ عَکَبَہ
بغیر دوسرے کے کام کو پورا کر دینا۔
الشئی۔ جلدی سے لینا۔ پکڑنا۔
اُفَلَّتْ۔ اچانک مرنا۔ بامیر کذا۔
تیار کرنے سے پہلے کسی کام میں لگنا۔
الشئی۔ کسی چیز کا اس سے اچانک
لیا جانا۔

اُسْتَفَلَّتْ۔ الشئی من کیدہ۔ چھین لینا۔
اُفَلَّتْ۔ رٹائی۔ چھوٹا کہا جاتا ہے۔ "مَا
لَكَ مِنْهُ فُلْتٌ تیرے لیے اس سے
چھوٹا کارا نہیں۔

فَرَسٌ فُلْتَانٌ۔ جر۔ فُلْتَانٌ د۔ وُفَلَّتْ
فُلْتٌ تیز رفتار گھوڑا۔ رَجُلٌ فُلْتَانٌ
چست، دلیر، تیز طبیعت، شر کی طرف
دوڑنے والا۔

اُفَلَّتْ۔ فلت کا اسم مرہ ہے۔ بمعنی ایک
مرتبہ چھوٹا جو کام عجلت میں بغیر استحکام
کے ہو جائے۔ مہینہ کی آخری رات۔ جر۔
فُلْتَانٌ۔ فُلْتَانُ الکلام۔ کلام کی
نعرشیں۔ لایعنی باتیں۔ کہا جاتا ہے۔
"خَوَّبَهُ الرَّجُلُ فُلْتَةً"۔ اچانک نکل
آیا۔ "وَحَدَّثَ الْأَمْرُ فُلْتَةً"۔ بغیر
سوچے کسی واقعہ کا ہو جانا۔ وَهُوَ فِي
بُرْدَةٍ لَهُ فُلْتَةً۔ یعنی وہ ایسی چھوٹی
اور تنگ چادر میں تھا جس کے دونوں
کنارے مل نہیں سکتے۔

كِسَاءٌ فُلُوتٌ۔ ایسی چھوٹی اور تنگ چادر جس
کے دونوں کنارے پٹنے والے کے جسم پر
نہ مل سکیں۔

فَلَجٌ رَنٌ، فَلَجًا وَفُلُوجًا۔ الشئی۔ پھاڑنا

دو ٹکڑے کرنا۔ الْحَرَاثُ الْأَرْضَ۔
کاشت کار کا زمین کو جوتنا۔ الْوَالِیُ
الجزیۃ بینہم وعلیہم۔ والی
کا جزئیہ کو قوم پر حصہ وار مقرر کرنا۔ جزئیہ
مقرر کرنا۔
فَلَجٌ فَلَجًا وَفُلُوجًا۔ الْقَوْمُ أَوْ عَلَى الْقَوْمِ۔
کامیاب ہونا۔ فَلَجٌ سَرْمَتُهُ۔ تیر کا
کامیاب ہونا۔ فَلَجٌ الرَّجُلُ مَقْصِدٌ
کامیاب ہونا۔ عَلٰی خَصْمِهِ۔ مقابل پر
غالب آنا۔ لکہ، مقابل کے برخلاف
اس کے حق میں فیصلہ کرنا۔ بِحَاجَتِهِ
نمات کرنا۔

فَلَجٌ (رَس) فَلَجًا وَفُلَجَةً۔ قَدَمُونَ یَا تَحَوُّ
یا دانتوں کے درمیان فاصلہ ہونا۔ صفت
أَفْلَجٌ۔ مُؤَنَفٌ فَلَجَاءٌ۔ جر۔ فَلَجٌ۔
فالج زدہ ہونا۔

فَلَجٌ۔ فالج میں مبتلا ہونا۔
فَالَجَهُ فَعْلَجَةً۔ کامیابی میں ایک دوسرے
پر غالب آنے کی کوشش کر کے غالب
آ جانا۔

فَلَجٌ۔ الشئی۔ تقسیم کرنا۔ الْأَمْرُ نَظَرٌ وَفَلَجٌ
اور تدبیر کرنا۔

أَفْلَجٌ۔ مطلوب میں کامیاب ہونا۔ عَلٰی
تخصوہ۔ مقابل پر غالب آنا اور کامیاب
ہونا۔ اللَّهُ فَلَانًا عَلٰی فَلَانٍ۔ اللہ
نے فلان کو فلان پر غلبہ دے دیا۔ اللہ
بُرْهَانُهُ۔ دلیل ظاہر کرنا۔ دلیل پیش
کرنا۔ یٰی۔ مقابل کے برخلاف میرے
حق میں فیصلہ کیا۔

تَفَلَجٌ۔ پھٹنا۔
اَفْلَجٌ۔ الصُّبْحُ۔ صبح کا روشن ہونا۔
اَفْلَجٌ۔ صم۔ آدھا۔ چاند۔ جر۔ فُلُوجٌ۔
د۔ وَالْفَلَجُ وَالْفُلُجَةُ۔ کامیابی
فتح مندی۔

اَفْلَجٌ۔ آدھا۔ (وَالْفَلَجُ) ایک قسم کا

پیمانہ۔ جر۔ قَوْلُ الْجُر۔
اَفْلَجٌ۔ صبح۔ وحشی جانور کے قدم پھٹنا اور
ٹخنے کا ہٹ جانا۔

اَفْلَجٌ۔ فا۔ ایک مرض ہے جو بدلی کے ایک
حصہ اور جانب میں پیدا ہو کر اس
جانب کے احساس اور حرکت کو باطل کر
دیتا ہے۔ دو کوآن والا اونٹ۔ رَمَن
السقم۔ کامیاب تیر۔

اَفْلَجٌ۔ خیمہ کا ایک حصہ اور ٹکڑا۔
اَفْلَجٌ۔ مِنَ الْاَسْتِن۔ کشادہ دانت
اَفْلَجٌ۔ فالج زدہ۔ جر۔ مَقَالِیْبُ۔
فَلَجٌ (رَن) فَلَجًا۔ الارض۔ زمین جوتنا۔

فَلَانًا۔ مکر کرنا۔ (فَلَاخَةً) لِلْقَوْمِ وَ
بِالْقَوْمِ۔ خرید و فروخت میں دھوکا دینا۔
نقصان پہنچانا۔

فَلَجٌ (رَس) فَلَجًا۔ نیچے کا ہونٹ پھٹا ہوا
ہونا۔ صفت أَفْلَجٌ۔ مُؤَنَفٌ فَلَجَاءٌ۔
جر۔ فَلَجٌ۔

فَلَجٌ۔ بد۔ بھٹکا کرنا۔ استہزاء کرنا۔ مکر کرنا۔
أَفْلَجٌ۔ الرَّجُلُ مَطْلُوبٌ مِّنْ کامیاب ہونا۔
کوشش میں کامیاب ہونا۔ کام کا درست
ہونا۔ بِالشئی۔ زندگی گزارنا۔

اُسْتَفَلَّتْ۔ بد۔ کامیاب و فتح مند ہونا۔
اَفْلَجٌ۔ صم۔ پھٹن۔ جر۔ فُلُوجٌ۔
اَفْلَجٌ وَالْفَلَجَةُ۔ نیچے کے ہونٹ کی
پھٹن۔ د۔ وَالْفَلَاخُ۔ کامیابی۔ خوشحالی
بقا۔ نجات۔ اذان میں کہا جاتا ہے۔
"سُحْرٌ عَلٰی الْفَلَاحِ"۔ یعنی کامیابی اور
نجات کے راستہ پر آؤ۔

اَفْلَجٌ وَالْفَلَاخَةُ۔ کھیتی باڑی۔
اَفْلَجٌ۔ کاشت کار۔ ملاح۔ کراہ پر دینے
والا۔ جر۔ فَلَاحَةٌ وَفَلَاخُونَ۔

اَفْلَجٌ۔ باعث کامیابی۔
مُتَفَلِّحٌ۔ الشفلة او الیدین او
اَفْلَجٌ۔ سردی کی وجہ سے جس کے

ہاتھ، پیر، ہونٹ پھٹ گئے ہوں۔
فَلَجَمَ (ف) قَلْعًا - الشَّيْءُ - پھاڑنا - اکھڑنا
واضح کرنا۔

فَلَجَحَهُ - مارتا
الْفَلَجُ - ہاتھ کی جلی - جہ - فَيَالِجْ -
فَلَدَ (د) قَلْدًا - لَهُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا
مال میں سے کچھ بھڑا سادینا۔

فَلَدَ - الشَّيْءُ - ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
افْتَلَدَ - المالَ - اپنے مال میں سے بھڑا
سالیبا۔ افْتَلَدَ - مِنْ فُلَانٍ حَقْلَهُ
کسی سے اپنا حق لینا اور بھیننا۔

الْفِلْدُ - اونٹ کا کلیجہ - جہ - أَفْلَدَ - و
أَفْلَدَ الارضَ زَبْنِ كَ خزانے -
الْفِلْدَةُ - جگر یا گوشت یا سونے وغیرہ کا ٹکڑا
جہ - فِلْدٌ وَفِلْدٌ وَأَفْلَدٌ -

الْفُلُودُ وَالْفُلُودُ جُ وَالْفُلُودُ قُ فُلُودُ
اور ایک حلوہ جو کہ میدہ اور شہد اور
پانی سے ملا کر تیار کیا جاتا ہے یہ کلمہ
دخیل ہے، جہ - قَوَالِيدُ -

الْفُلُودُ - فولاد - لوبا (یہ کلمہ دخیل ہے،
جہ - قَوَالِيدُ -
الْمَفْلُودُ - مِنَ السُّبُوفِ - فولاد کی بنی
ہوئی تلوار۔

الْفِلْزُ وَالْفِلْزُ وَالْفِلْزُ - ایک قسم کا
سفید تانبا۔ لوبہ کا میل زمین کی
تمام دھاتیں - بڑا سخت آدمی - بخیل -
جس پر تلوار کو مار کر آڑ مایا جائے -

فَلَسَ - الْقَاضِي فَلَاكَ قَاضِي كَ كَ كَ
مفلس یعنی دیوالیہ قرار دینا۔
أَفْلَسَ - مال باقی نہ رہنا اور ایسا حال ہو جانا
کہ یہ کہا جانے لگے کہ اس کے پاس

پیسہ تک نہیں مفلس قلات ہے صفت
مُفْلِسٌ - جہ - مُفْلِسُونَ وَمُقَالِيْسٌ
الْمَلْسُ - پیسہ - جہ - أَفْلَسَ وَفُلُوسٌ -
فُلُوسُ السَّمَكِ - مچھلی کے اوپر کے

پھلے اور کھڑکڑ - کہا جاتا ہے - فُلَانٌ
فَلَسَ مِنْ كَيْلٍ خَيْرٍ - یعنی اس میں کوئی
خیر اور بھلائی نہیں - ہر قسم کی بھلائی سے
خالی ہے۔

الْقَلَّاسُ - صراف - پیسے فروخت کرنے
والا۔
الْمُفْلَسُ - مفہ - وہ آدمی یا جانور جس کی
کھال پر بھیلی جیسے کھڑکڑ ہوں۔

تَفْلَسَفَ - تَفْلَسَفَ - فلسفی بنا - علمی اور
حکمت کی باتوں میں بحث کرنا - ماہر و
حاذق ہونے کا دعویٰ کرنا۔

الْفَلَسْفَةُ - حکمت، مسائل علمیہ میں غور و فکر
اشیاء کے حقیقی نفس الامری حالات
معلوم کرنا - مبادی اور علل کا بقدر طاقت
بشریحہ معلوم کرنا۔

الْفَيْلَسُوفُ - فلسفہ کا عالم ماہر - ارسطو طالیس
جہ - فَلَا سِفَةَ -
فَلَسَ - الرُّجُلُ - چھڑانا۔
أَفْلَسَ وَانْفَلَسَ وَتَفْلَسَ - رہائی پانا۔

فَلَطَدَنَ فُلُطًا - عَنِ الشَّيْءِ كَيْسِي شَيْءٌ
دہشت زدہ اور حیران ہونا۔
فَالَطَةُ - اچانک آنا - پانا۔
أَفْلَطَهُ - الامرُ - کسی امر کا اچانک
پیش آنا۔

أَفْلَطَ - بِالْأَمْرِ - اچانک مشغول کیا جانا۔
الْفَلْطُ - اچانک۔
فَلَطَ فُلُطًا فَفَلَطَهُ - الْقَوْمُ - ٹکیہ کو
پھیلانا - چوڑا کرنا۔

الْفَلْطُ - چوڑا کیا ہوا۔
فَلَعَرَفَ - فُلَعًا وَفَلَعًا - الشَّيْءُ - پھاڑنا۔
تَفْلَعًا - پھٹنا۔
انْفَلَعًا - پھٹنا اور ٹکڑے ہو جانا۔

الْفُلْعُ وَالْفُلْعُ - قدم وغیرہ کی پھٹن - جہ
فُلُوعٌ -
الْفُلْعَةُ - کوٹان کا ایک ٹکڑا - جہ - فُلْعٌ -

الْقَالِقَةُ - مصیبت عظیمہ - جہ - قَوَالِعُ -
سَيِّئُ فُلُوعٌ - جہ - فُلْعٌ - د - وَمِفْلَعٌ -
تلوار قاطع۔

مَزَادَةُ مِفْلَعَةٍ - چمڑے کے ٹکڑوں سے
بیسلا ہوا گوشہ دان۔
فَلَعَرَفَ (ف) قَلْعًا - رَأْسَهُ - سر توڑنا - کچلنا۔
زخمی کرنا۔

تَفْلَعُ - الشَّيْءُ - ریزہ ریزہ ہونا۔
فَلَقَلَّ - الطَّعَامَ - کھانے میں مرج ڈالنا۔
فَلَقَلَّ وَتَفْلَقَلَّ - چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔
نازا اور تکر سے چلنا۔ تَفْلَقَلَّتْ

حلمات الضرع - پستان کے بالائی
حصہ کا سیاہ ہونا۔ تَفْلَقَلَّ شَعْرُ الْأَسْوَدِ
بال کا سخت گھنگھریلا ہونا۔
الْفُلْفُلُ وَالْفُلْفُلُ - مرج - واحد فُلْفِلَةٌ -
(یہ کلمہ دخیل ہے)

الْفُلْفِلَةُ - ایک نباتات کی قسم ہے، جس کی
دو قسمیں ہیں - ایک قسم مرج کے مانند
تیز ہوتی ہے اور دوسری قسم میں تیزی
نہیں ہوتی۔

شَرَابٌ مُفْلَقَلٌ - تیز شراب جو پیتے وقت
مرج کی طرح منہ کو جلادے - شَعْرٌ
مُفْلَقَلٌ - بہت گھنگھریالے بال۔
فَلَقَ رَضًا - فُلَقًا وَفَلَقَ - الشَّيْءُ - پھاڑنا۔
فَلَقَ اللَّهُ الصُّبْحَ - رات کی تاریکی پھاڑ
کر صبح کی روشنی ظاہر کرنا۔

أَفْلَقَ - الشَّاعِرُ - عجیب کلام کننا - صفت
مُفْلَقٌ - أَفْلَقَ بِالْأَمْرِ - ماہر ہونا۔
تَفْلَقَ - پھٹنا۔ دوڑنے میں کوشش کرنا۔
انْفَلَقَ - پھٹنا۔

الْقَائِقُ - فا - پھاڑ کا شکاف۔
الْقَالِقَةُ - فائق کا مؤنث۔ دو ٹیلوں کے
درمیان ہموار زمین۔
الْفَلْقُ - مہ - شکاف - جہ - فُلُوقٌ - فُلُقُ
الرَّاسِ - مانگ - وسط۔





الْفَلَقُ۔ امر عجیب مصیبت۔ بھاڑی ہوئی چیز کا آدھا۔

الْفَلَقُ۔ صبح۔ کل مخلوق۔ اشکال کے بعد حق کی وضاحت کرنا۔ دو ٹیلوں کے درمیان ہموار زمین۔ دوزخ۔ پہاڑ کا شکاف۔ جہ۔ فُلُکَانِ۔ پیالہ کی تلی میں جو دودھ باقی رہ جائے، حقارت کے طور پر کہا جاتا ہے۔ "یا ابنِ شاربِ الفَلَقِ"۔ وہ لکڑی کہ جس میں رسی کے کنارے باندھ کر مجرم کے دونوں پیروں میں ڈالی جاتی تھی۔ وَالْفَلَقِ مِنَ اللَّبَنِ۔ پھٹا ہوا دودھ۔ جہ۔ أَفْلَاقُ۔

الْفَلَقَةُ۔ پھٹی ہوئی چیز کا آدھا۔ الْفَلَقَةُ۔ جہ۔ فُلُقٌ۔ وَالْفُلُقَةُ۔ پھٹی ہوئی چیز کا آدھا۔ مصیبت۔ جہ۔ فُلُقٌ۔ الْفُلُقُ وَالْفُلُقَةُ وَالْمُفْلَقَةُ وَالْفُلُقُ مصیبت۔ امر عجیب۔ الْفُلُقُ۔ گردن کی ابھری ہوئی رگ کبھی کہتے ہیں۔

الْفُلُقَانُ۔ خالص جھوٹ۔ لَبَنٌ فُلُقٌ وَفُلُقٌ۔ جما ہوا دودھ۔ کہا جاتا ہے۔ صَارَ اللَّبَنُ فُلُقًا وَفُلُقًا وَ أَفْلَاقًا۔ یعنی ترشی کی وجہ سے دودھ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔

الْثَمَرُ الْفُلُقِيُّ وَالْثَمَرُ الْمَفْلُقُ۔ خشک پھل جو کہ پھٹ کر گھٹی سے جدا ہو گیا ہو الْفُلُقِيُّ۔ بڑا لشکر۔ بڑا آدمی۔ جہ۔ ذِی الْفُلُقِ رَجُلٌ فُلُقٌ۔ کا نام د۔ اِمْرَاةٌ فُلُقٌ بڑی چالاک شور مچانے والی عورت۔

الْمُفْلِقُ۔ فا۔ شَاعِرُ مُفْلِقٍ۔ انوکھا کلام کہنے والا شاعر۔

الْمُفْلَقُ۔ فواہش اور منکر کام کرنے والا۔ مفلِسٌ قُلَاحُجٌ۔ جہ۔ مَفْلِیْنِ۔ رَجُلٌ مِفْلَاقٌ۔ برا آدمی۔ کمینہ اور رذیل آدمی۔

فَلَقَحَ۔ صَافِی الْاِنَاءِ۔ جو کچھ برتن میں ہو سب کو پی جانا۔

تَفْلَقَحَ۔ اِلَى الْقَوْمِ نَوَاحِی دینا۔ الْفَلَقِجِ۔ ہنس مکھ۔

فَلَکَ دَنٌ، فَلَکَا۔ تَدْعِی الْجَارِیَةِ۔ رُکِی کے پستان کا گول ہونا۔

فَلَکْتُ وَفَلَکْتُ۔ الْجَارِیَةِ۔ رُکِی کا گول پستان والی ہونا۔ صَفْتُ فَلَکٌ۔ جہ۔ فَوَالِکَ۔

فَلَکٌ وَفَلَکٌ۔ التَّدْعِی۔ پستان کا گول ہونا۔ الرَّجُلُ فِی الْاَمْرِ۔ کسی معاملہ میں اصرار کرنا۔

تَفَلَکَ وَاسْتَفَلَکَ۔ تَدْعِی الْجَارِیَةِ رُکِی کے پستان کا گول ہونا۔

الْفَلَکُ۔ آسمان ستاروں کے چکر لگانے کی جگہ۔ جہ۔ فُلُکٌ وَفُلُکٌ وَفُلَاوُکٌ۔

ر۔ وَالْفَلَکُ، مِنْ کُلِّ شَیْءٍ۔ ہر شے کا گول اور بڑا حصہ۔ مِنْ الْبَحْرِ۔ موج دریا۔ جہاں پانی ہر طرف سے جمع ہو کر چکر کھانے لگے۔ ریت کا وہ ٹیلہ

جس کے ارد گرد کھلا میدان ہو۔ زین کے وہ ٹکڑے جو ارد گرد کی زمین سے بلند ہوں۔ وَاحِدُ فَلَکَةٍ وَفَلَکَةٍ۔

جہ۔ فِلَاکٌ۔ الْفِلَکُ۔ ابھری ہوئی ہڈیوں والا۔ سخت جوڑوں والا۔ وہ آدمی جس کے زانو کی

چینی میں درد ہو۔ رَجُلٌ فِلَکٌ۔ بڑے سُورین والا مرد۔

الْفُلْکِ۔ فلک کی جانب منسوب۔ آسمان اور سماوی چیزوں کا جلنے والا۔

الْفَلَکَةُ۔ فلک کا واحد یعنی ایک آسمان ہر وہ چیز جو ابھری ہوئی بلند اور گول ہو۔ جہ۔ فُلُکٌ وَفَلَکٌ۔ فَلَکَةُ الْمَغْزِلِ

چرنے کا دھڑا۔ جہ۔ فَلَکٌ۔ الْفُلُکُ۔ کشتی۔ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے

لیے یکساں مستعمل ہے۔ الْاَفْلَکُ۔ وہ شخص جو ریت کے ایسے ٹیلہ کا چکر لگائے جس کے چاروں طرف میدان ہو۔ الْاَفْلَکَانُ۔ حلق کے کوئے کے ارد گرد گوشت کے دو ٹکڑے۔

الْمُفْلِکُ وَالْمُفْلَکُ۔ مِنَ الْبَسَائِرِ۔ گول پستان والی عورت۔ اِفْتَکَمَ۔ اَفْکَهُ۔ ناک کا ٹٹا۔

فُلَانٌ وَفُلَانَةٌ۔ ذوی العقول کے ناموں کی جگہ بطور کنایہ بولے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان پر الف لام (علامت معرفہ) داخل نہیں ہوتے۔ فُلَانَةٌ۔ غیر منصرف ہے۔

کہا جاتا ہے۔ "جَاءَ فُلَانٌ وَجَاءَتْ فُلَانَةٌ"۔ کبھی کبھی غیر ذوی العقول کے لیے بھی کنایہ ہوتے ہیں۔ اس وقت الف لام ان پر داخل ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو۔ "رَكِبْتُ الْفُلَانَ"۔ فُلَانُ جانور پر سواری کی اور فُلَانُ جانور کا دودھ دوہا۔

فَلَا یَفْلُکُونَ، فَلَاءٌ وَفُلُوْا۔ سفر کرنا۔ بِالْمَیْمِیۃِ۔ تلوار سے مارنا۔ الْقَوْمُ۔ قوم کے درمیان میں آنا۔ د۔ وَاقِلٌ وَ اِفْتَلٰ، الصَّبِیُّ وَالْمَهْمَرُّ۔ بچہ یا بچیرے سے دودھ چھڑانا اور ماں سے جدا کرنا۔ الْعَلَامُ۔ رُکِی کے پرورش کرنا۔ اِفْتَلَاہُ یَنْفِیْمُہ۔ اپنے لیے لینا۔ اَفْلٰی الرَّجُلُ۔ جنگل کی طرف جانا یا اس میں داخل ہونا۔ اَفْلَتِ الْقَدِیْسُ گھوڑی کا بچیرے والی ہونا۔ یا بچیرے کے دودھ چھڑانے کے وقت پر پہنچنا۔ صفت۔ مُفْلِلٌ وَ مُفْلِلَةٌ۔

الْفُلُوْا۔ جہ۔ اَفْلَاؤُ وَفِلَاؤُ وَ الْقُلُوْا وَ الْفُلُوْا۔ جہ۔ اَفْلَاؤُ وَفِلَاؤُ۔ بچیرا۔ یا گدھے کا بچہ جو دودھ چھڑانے کے زمانہ میں ہو یا جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔

مَوْتٌ فَلَوْهٌ وَفُلُوَةٌ -

الْفَلَاةُ: وسیع بیابان - جر - فُلَوَاتٌ وَقَلَاةٌ وَفُلِيٌّ وَفُلِيٌّ - اور فَلَاحٌ کی جمع أَفْلَاحٌ فَلَاحٌ یَفْلَحُ فُلُیًّا - الامور تامل اور غور و فکر کے بعد موحہ کرنا - الشَّعْرُ: شعر میں غور کر کے اس کے معانی اور غرائب کا استخراج کرنا - فَلَاحٌ بِالسَّيْفِ: تلوار سے مارنا - فُلِيٌّ زَبَدٌ اِنْفِ عَقْلِهِ - آزمائش کرنا - وَفُلِيٌّ تَفْلِيهٌ رَأْسُهُ اَوْ ثَوْبُهُ - سر یا کپڑے سے جوئیں نکالنا -

فُلِيٌّ (س) یَفْلَحُ فَلَاحٌ - الشَّيْءُ: کُتِبَ - فُلِيٌّ وَافْلِيٌّ وَافْلِيٌّ - القوم - در بیان میں آنا - اَفْلَحَ الْقَوْمُ بِعَيْنِهِ: غور سے دیکھنا -

تَفْلَحُ: سر یا کپڑے میں سے جوئیں نکالنا - السَّطْرُ: پرندہ کا چونچ سے پروں کو کھیلانا -

تَفَالَى وَاسْتَفَالَى: کسی سے جوئیں نکالنے کی خواہش کرنا - تَفَالَتِ النِّسَاءُ: ایک دوسرے کی جوئیں نکالنا - تَفَالَتِ النِّسَاءُ: گدھوں کا ایک دوسرے کے بدن سے رگڑنا اور کھل سٹانا -

اِسْتَفْلَاةٌ: تلوار سے سر بھاڑنے کے درپے ہونا - اِفْلَاوِيَّةٌ: جوئیں نکالنا -

اَلْقَالِيَّةُ: چھری - داغدار گبر یا جو سانپوں کے بلوں کے قریب رہا کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو قَالِيَّةٌ اَلْاَفَارِجِ بھی کہتے ہیں قَالِيَّةٌ اَلْاَفَارِجِ - مقدمات شر کا پیش خیمہ -

اَلْقَمُّ وَالْقَمُّ وَالْقَمُّ - مِنَ الْاِنْسَانِ - منہ - یہ اصل وضع کے لحاظ سے فَمُّ ہے اس کا تشبیہ قَمَانٌ وَقَمَوَانٌ وَ قَمِيَانٌ - جر - اَفْهَامٌ - اور اَفْوَاحٌ باعتبار اصل کے، اور نسبت کرتے وقت

فَمُوْحٌ اور فَمُوْحٌ استعمال ہوتے ہیں -

فَنٌّ: كَمَاءٌ - الشَّيْءُ: مزین کرنا - الرَّجُلُ مشفق میں ڈالنا - فَنَّهُ فِي الْبَيْعِ - نقصان دینا - فَنٌّ الدِّينِ: قرین کو ٹالنا - فَنٌّ الْاِبِلِ: اونٹ کو دفع کرنا یا کھنا -

فَنٌّ: الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا - النَّاسُ: جُبا جُبا کرنا - لوگوں کی مختلف قسمیں اور جماعتیں - فَنٌّ: رَأْيُهُ: طرح طرح کی رائے بدلنا -

تَفَنَّنَ: الشَّيْءُ: قسم بہ قسم ہونا - مضطرب ہونا - تَفَنَّنَ: فِي الْحَدِيثِ: بات کو عمدہ در خوش اسلوبی سے بیان کرنا - اَفْتَنَّنَ فِي خُصُومَتِهِ: جھگڑے میں توسع کرنا -

اَلْفَنُّ: مم - ہر شے کی ایک نوع اور قسم - اَلْفَنَانُ وَفَنُونٌ: ججر -

اَفَانِيَّةٌ: اَفَانِيَّةٌ الْكَلَامِ: کلام کے مختلف اسلوب - کہا جاتا ہے "لَقِيْتُ رَضِيَةً فَتَاءً" یعنی اس سے مجھے تکلیف پہنچی - اور کہا جاتا ہے "هُوَ فَنٌّ عَلِيٌّ" - وہ علم کے ساتھ بہتر تعلق رکھنے والا ہے -

اَلْفَنُّ: سیدھی شاخ - جر - اَفَانٌ: ججر اَفَانِيَّةٌ -

اَلْفَنَّةُ: فَنٌّ کا اسم مرۃ زمانہ کی ایک مدت - اَلْفَنَّةُ: بہت گھاس -

تَشَجُّوَةٌ: قَتَاةٌ وَقَتَاةٌ - بہت شاخ دار و زیت -

اَلْقَيْنَانُ: لمبے بال والا مرد - تَشَعُّرُ قَيْنَانٍ: لمبے لمبے خوبصورت بال -

اَلْاَفَنُونُ: شے کی ایک قسم - گنجان ٹہنی - ابتدا و خواتم - پہلا و ادول مضطرب کلام -

سانپ - جر - اَفَانِيَّةٌ - اَلْبَقْنُ: عجیب ایجادات کرنے والا - مَوْنٌ وَفَنَّةٌ -

اَلْمُفَنِّئَةُ: بدھن بوڑھی عورت -

اَلْمُتَفَنِّنُ: فا - اُرْتَفَنُّ: گوناگوں حالات والا - گوناگوں صنعت والا -

اَلْفَنُّ: جماعت -

اَلْفَنَاءُ: کثرت -

اَلْفَنَّا جَرَّةٌ: وہ گھوڑے سوار جو سواری میں ماہر ہوں -

اَلْفَنَجَانُ: مٹی شیشہ وغیرہ کا چھوٹا گلاس اور برتن - جر - فَنَّا جَعَيْنُ: دھم دھل ہے - فَنَحَهُ دَن: فَنَحًا وَفَنَحَهُ: غالب ہونا - مدلل اور مطیع بنانا - فَنَحَهُ عَظْمُهُ: بغیر جمرے اور خون نکالے ہڈی کو توڑنا -

فَنَحَهُ: قَنَحًا وَفَنُوْحًا: خوب اچھی طرح قتل کرنا -

اَفَنَحَهُ: رَأْسُهُ: سر کھپنا - تَفَنَحَهُ: مقبور کرنا - بہت بری طرح سے ذلیل کرنا -

اَلْفَنِيْبُ: نرم کمزور - بوڑھا - اَلْمِفَنَحُ: دشمنوں کی سرکوبی کر کے ان کو ذلیل کرنے والا -

فَنَحَرُ فَنَحْرُهُ: نیتھے پھیلانا - اَلْفَنَّاخِرُ: بڑی ناک والا - (وَالْفَنَّاخِرُ) بڑے ٹیل ڈول والا - مَوْنٌ فَنَّاخِرَةٌ وَفَنَّاخِرَةٌ -

اَلْفَنَّاخِرَةُ: بہت فخر کرنے والا - فَنَدَّ (س) كُنَدًا اَوْ اَفَنَدًا: سٹھینانا - بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف العقل ہونا اور ہلکی ہوئی باتیں کرنے والا - جھوٹ بولنا - فی

اَلْوَامِي اَوِ الْقَوْلِ: خطا کرنا - اَفَنَدًا: خطا کا رکھنا - اَفَنَدًا اَلْمَسْبُورُ: بڑھاپے کا کسی کو ضعیف العقل کر دینا -

فَنَدًا: جھٹلانا - ملامت کرنا - خطا کا رکھنا - فَنَدًا فِي الشَّرَابِ: شراب پر مدامت کرنا - فَنَدًا الْفَرَسَ: گھوڑے کو مدد اور چھریز بنانا - دَفَانَدٌ وَفَنَدٌ: فَلَانًا -





عَلَى الْأَمْرِ كَيْسِي كَامٍ كِي طَلَبُ كَرْنَا - يَا
ارادہ رکھنا۔ تَفَنَّدَ مِنْ كَذَا۔ نادم و
پشیمان ہونا۔

الْفَنْدُ - مَص - عاجزی - کفرانِ نعمت - ج
اَفْنَادُ -

الْفَنْدُ - بڑا پہاڑ۔

الْفَنْدُ - بڑا پہاڑ - ٹہنی - نوع - متفق ، اور

مجمع قوم - وہ زمین جس پر بارش نہ

ہوتی ہو۔ ج۔ فَنُوْدُ وَاَفْنَادُ - کہا جاتا

ہے 'اَلْوَاَفْنَادَا' یعنی جماعتیں بن

کرائے - اَفْنَادُ اللَّيْلِ - رات کے

حصے۔

الْفُنْدُقُ - سرے - ج۔ فَنَادِقُ - بندوق۔

الْفُنْدُقُ - حساب کارجہ - ج۔ فَنَادِقُ -

(دخیل)

الْفَنَارُ - مشعل - روشنی کا منار - ج۔ فَنَارَاتُ

الْفَنَارُ - جہل خور - مشعل - لالٹین - ج

خَوَانِيسُ -

فَنَشَسُ - فی الامر - ڈھیل دینا۔

الْفَنَطَاسُ - کشتی اور جہاز میں بیٹھے پانی کا

حوض - بیٹھے پانی کے تقسیم کرنے کا

پیالہ - ج۔ فَنَاطِيسُ - اَلْفُ فَنَطَاسُ

پوڑی ناک۔

الْفَنَطِيسُ - کینہ - پوڑی ناک والا - وہ

ناک جس کے تھپے چوڑے ہوں اور بانہ

چپٹا پھیلا ہوا ہو - ج۔ فَنَاطِيسُ -

الْفَنَطِيسَةُ - سُورُکِ تھوٹھی -

فَنَمَ دَس - فَنَعَا - مالدار ہونا - صفت فَنَمَ و

فَنَمَ -

الْفَنَمُ - مَص - سخاوت کی زیادتی فضل واسع

ہر شے کی کثرت - مُشک کی ہسک -

الْمَفْنَعُ - اچھی شہرت والا - نیک نام -

فَنَقَّ وَاَلَقَّ - الْعَلَامُ - ناز و نعمت

سے پالنا -

اَفَنَقَ - سستی کے بعد صاحبِ نعمت ہونا۔

تَفَنَّقَ - الْعَلَامُ - ناز و نعمت سے زندگی

بسر کرنا - اچھی زندگی گزارنا - فی الامر

مبالغہ کرنا۔

جَارِيَةٌ "فَنَقَّ وَصَفَنَاقُ" - ناز و نعمت میں

پہلی ہوئی لڑکی۔

الْفَنِيْقُ - نراونٹ کہ جس کو بوجہ اس کی

شرافت کے نہ تو سواری کے کام میں لادیں

اور نہ اس کو تکلیف پہنچائیں جہ فَنَقَّ -

جہر اَفْنَاقُ -

الْفَنِيْقَةُ - وہ لورا جو گون سے چھوٹا ہو۔

ناز و نعمت میں پی ہوئی عورت - ج۔

فَنَائِقُ -

عَيْشُ مَفَائِقُ - خوش عیش زندگی۔

فَنَكَ دَن فَنُوْكَ - ہالکان - اقامت کرنا

(ر۔ وَاَفْنَاكَ) - عَلَى الامر - ملاومت

کرنا - فی الامر - اصرار کرنا جھوٹ

بولنا۔

فَانَكَ مَفَانَكَةُ - فی الامر - دخل دینا

(ر۔ وَفَنَكَ تَفْنِيْكَ) - فی الشتر - او

الکذاب - جھوٹ اور شر میں انہماک -

اصرار کرنا۔

الْفَنَكُ وَاَلْفَنَكُ - تعجب - اَلْفَنَكُ -

رات کا حصہ - لومڑی کی جنس سے ایک

جانور جو لومڑی سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے۔

اور جس کی کھال کی پوستیں بہت عمدہ

ہوتی ہے۔

الْفَنَكُ - دروازہ در۔ وَاَلْفَنَكُ رات

کا ٹکڑا۔

الْفَنِيْكُ - انسان کے جبڑوں کے ملنے کی

جگہ - ر۔ وَاَلْفَنِيْكُ - پزندہ کی دم

نکلنے کی جگہ۔

الْمُفَنِّيْكَةُ - بے وقوف عورت

الْفَنَاءُ - بیگنی - ج۔ فَنَوَاتُ - مکو کا دانہ۔

جہ - فَنَاءُ -

تَشَجُّرٌ - فَنَوَاعُ - بہت شاخوں والا سایہ دار

درخت۔

فَنِي دَس - وَفَنِي يَفْنِي دَس - فَنَاءُ -

معدوم ہونا - الرَّجُلُ - بہت بوڑھا

ہونا - کہا جاتا ہے "صَارَ زَيْدٌ شَيْخًا"

فَانِيًا - یعنی زید بہت بوڑھا ہو گیا۔

فَانِي مَفَانَا - الرَّجُلُ - مدارات کرنا۔

تسکین دینا - کہا جاتا ہے "كَانَ يَفَانِي"

الايامَ لَآهِيًا - یعنی وہ زمانے کو

کھیل کود میں بسر کرتا ہے - المال -

اصلاح کرنا۔

اَفْنِي اَفْنَاءُ - الشئ - معدوم کرنا - ہلاک

کرنا۔

تَفَانِي - القوم - بعض کا بعض کو ہلاک کرنا

الْفَانِي - فا - بہت زیادہ بوڑھا گویا کہ فنا

کے قریب ہے۔

الْفَنَاءُ - مَص - بقا کی ضد - ہلاکت۔

الْفَنَاءُ - گھر کے سامنے کا میدان - صحن - ج

اَفْنِيَّةٌ دَفْنِي - کہا جاتا ہے "هُوَ"

مِنْ اَفْنَاءِ النَّاسِ - وہ غیر معروف

النسب ہے - واحد فَنُوْ -

فَنَاءُ دَس - وَفَنَاءُ دَس - فَنَاءُ - بول چال

میں در ماندہ و عاجز ہونا - صفت فَنَاءُ

وَلَهْفِيَّةٌ -

فَنَاءُ دَس - فَنَاءُ - الشئ وَعَنِ الشئ -

بھولنا۔

فَنَاءُ وَاَفَنَاءُ - اللہ الرَّجُلُ - عاجز کرنا۔

اَفَنَاءُ الشئ - کسی شے کو بھولوانا۔

الْفَنَاءُ - فَنَاءُ کا مؤنث - عاجزی - غفلت

فَنَاءُ دَس - فَنَاءُ - سونے میں یا انگریزی

لینے میں یا غصہ میں تیندوے جیسا ہونا۔

کسی ضروری کام سے غفلت کر کے سوچنا

صفت فَنَاءُ وَاَفَنَاءُ - فَنَاءُ عَنهُ

غافل ہونا۔

فَنَاءُ دَس - فَنَاءُ - اَلْفَنَاءُ - کسی کے لیے

اس کی غیبت میں بھلائی اور فعل جہل کرنا۔

الفہد۔ درندہ کی ایک نوع جو کہ کتے سے بڑا اور چیتے سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بدن پر چھوٹے چھوٹے سیاہ داغ ہوتے ہیں۔ اس کو تیندوا کہتے ہیں۔
جر فہود و آفہد۔

الفہدۃ۔ فہد کا مونث۔ تیندوے کی مادہ۔ جر۔ فہدات۔

الفہاد۔ تیندوؤں والا۔ تیندوے کو شکار کھانے والا۔

الفوہد۔ مونث فوہدۃ۔ والافوہود موٹا تازہ۔ قریب البلوغ لڑکا۔ جر آفایہد۔

فہر۔ الفرس۔ اور الرجل۔ چلنے میں ٹھکن اور عجز کا پیدا ہونا۔

آفہر۔ یہودیوں کی عید میں یا ان کے بیت العلم میں حاضر ہونا۔

فہر۔ یہودیوں کی عید۔ بیت العلم۔ آفہر۔ زید۔ موٹائی اور گوشت کے مجتمع ہوجانے سے بدزیب ہونا۔

تفہر۔ فی المال والکلام۔ مال اور کلام میں توسع ہونا۔

الفہرۃ۔ عند الأطباء۔ وہ باریک پتھر جس سے دوار گڑی جائے یا گھسی جائے۔ المفاہر۔ سینہ کا گوشت۔

الفہرس والیفہرسنت۔ وہ کتاب جس میں کتابوں کے نام جمع کیے جائیں۔ کتاب کے اول یا آخر میں چند اوراق جس میں کتاب کے ابواب و فصول بیان کر دیے جائیں۔ جر۔ فہارس۔

فہضۃ دن، فہضاً۔ توڑنا۔ پھنسا۔ فہق دن، فہقاً۔ الرجل۔ چنبر گردن پہ مارنا۔

فہق دس، فہقاً و فہقاً۔ الزناء۔ برتن کا لریر ہو کر پھلکنا۔

آفہق۔ الزناء۔ برتن کو بھرنے۔ البرق

وغیرہ۔ بجلی وغیرہ کا پھیل جانا۔

الفقہۃ۔ گردن کی جڑ کی بڑی جو کہ اول الفقہ کہلاتی ہے۔ جر۔ فہاق۔

القاہقۃ۔ وہ زخم جس سے خون جاری ہو۔ یتر فہاق۔ بہت پانی والا کٹنا۔

المفہق۔ کشادہ۔ فہم دس، فہماً و فہماً و فہامۃ و فہامۃ و فہامۃ۔ الامر والمعنی

کسی امر یا معنی کا جاننا۔ سمجھنا۔ فہمۃ و فہمۃ۔ الامر۔ سمجھنا۔

تفہم۔ الکلام۔ کلام کو بھڑا بھڑا کر کے سمجھنا۔

تفہم۔ القوم۔ بعض کا بعض سے سمجھنا۔ استفہمۃ۔ الامر۔ بات دریافت کرنا۔

یاسمجھانے کی درخواست کرنا۔ الفہم۔ مم۔ سمجھ کسی چیز کا تصور۔

الفہم۔ سمجھ دار یعنی جلدی سمجھنے والا۔ الفہامۃ۔ بہت سمجھنے والا۔ یہاں پر تا

مبالغہ کے لیے ہے۔ الفہیم۔ سمجھ دار۔ جر۔ فہماء۔

فہا یفہودن، فہوا۔ عن الامر۔ بھولنا۔

الافہاء۔ بیوقوف لوگ۔ فات دن، یفوت فتوتاً و فتواتاً۔ الاہر

گذرنا۔ کام کرنے کا وقت جاتا۔ ہنا۔ فاتۃ الامر۔ کسی کام کا نہ ہونا اور

ہاتھ سے نکل جانا۔ فاتۃ فلان ری کذا۔ آگے بڑھنا۔ الشئ۔ تجاوز کرنا۔

آفاتۃ افاتۃ۔ الامر۔ گذاردینا۔ تفوت۔ علیہ فی مآلہ۔ غلبہ کر کے

اس کا مال لے جانا۔ تفاتت تفاتتاً و تفاتتاً و تفاتتاً۔ الشیئان۔ دو چیزوں میں اختلاف

اور دوری کا ہونا۔ فی الفصل فضل و

کمال میں مختلف اور تباہی ہونا۔

افئات۔ الکلام۔ نئی بات کہنا۔ ہراپہ۔ خود رائی کرنا۔ بامیر۔ کسی کام کو بغیر

دوسروں کے مشورہ کے خود کر لینا۔ علی فلان فی الامر۔ حکم کرنا۔ فیصلہ

کرنا۔ افئاتۃ الامر۔ فوت ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ "فلان لا یفئات علیہ"

یعنی فلاں کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا۔

الفوت۔ مم۔ دوانگیوں کے درمیان کشادگی۔ جر۔ افوات۔ کہا جاتا ہے۔ "جعل اللہ

رزقہ فوت قیہ" یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کو ایسا بنا دیا ہے کہ

وہ دیکھتا ہے اور اس تک پہنچتا نہیں۔ الفوات۔ مم۔ موت الفوات۔ اچانک

موت۔ الفویت۔ خود رائے جو کسی سے مشورہ نہ

کرے۔ یہ مذکورہ موت دونوں کے لیے یکساں ہے۔

فاجر دن، یفوجہ فوجاً۔ الملسک۔ مشک کی خوشبو کا بھڑکنا۔ پھیلنا۔ حکمت

فاجر النہار۔ دن کا ٹھنڈا ہونا۔ فوجہ۔ عن نفسہ۔ ٹھنڈا کرنا۔

آفاجہ۔ الرجل۔ جلدی کرنا۔ الفرس۔ گھوڑے کا دوڑنا۔

استفہجہ۔ ہلکا سمجھا جانا۔ ذلیل سمجھا جانا۔ الفوجہ۔ جماعت۔ گروہ۔ عرف میں مسلح

عسکری۔ جر۔ آفاجہ و فوجہ و فوجہ و فوجہ۔ آفاجہ و آفاجہ و آفاجہ۔

الفایجۃ۔ جماعت۔ سخت زمین یا ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان میں کشادہ جگہ۔

فاحت تفوجہ فوجاً و فوجاً و فوجاً و فوجاً۔ القدر۔ ہانڈی کا جوش مارنا۔

فاحت الشجۃ۔ زخم کا خون پھینکنا۔





فَاخَ وَتَفَادَوْهَ - الذَّهْرُ بھول کا مکنہ۔
 خوشبو بھڑکنا۔ فَاخَ الْمِسْلُ او
 الطَّيْبُ مَشْک یا خوشبو کا بھڑکنا۔
 آفَاخَ - الدَّمُ - خون گرانا۔ الْقَدْرُ
 ہانڈی کو جوش دینا۔
 قَوْحُ - الْحَرُّ گرمی کی شدت۔
 فَاحَتْ تَفْوَحُ قَوْحًا - الرِّيحُ ہوا
 چلتے وقت آواز نکلتا۔
 فَاخَ وَآفَاخَ - الرَّجُلُ گوز کرنا۔
 آفَاخَ النَّزْقُ مَشْک کا منہ کھول کر
 ہوانکا کرنا۔
 كَادَرْنَ يَفْوُدُ قَوْدًا - مَرْنَا - فَاذَ الشَّيْءُ
 بِالْشَّيْءِ - مَلَانَا - الْمَالُ يَفْلَانُ ثَابِت
 ہونا۔ او ساس کا اسم الْفَائِدَةُ آتا
 ہے۔
 آفَادَرْنَا فَاذَةً - الرَّجُلُ مارنا۔ ہلاک کرنا
 - فَلَانُ الْمَالِ مال جمع کرنا۔ کماٹی کرنا
 - فَلَانًا مَالًا او عَلَمًا مال اور علم عطا
 کرنا۔ نفع پہنچانا۔
 تَفَوَّدَ - الْوَعْلُ قَوْحُ الْجَبَلِ پہاڑی
 بکری کا پہاڑ پر چڑھنا۔
 اسْتَفَادَ - حَاصِل کرنا۔
 الْقَوْدُ - مَم - کپٹی کپٹی کے بال۔ کہا جاتا
 ہے "بَدَأَ الشَّيْبُ يَفْوُدِيهِ" یعنی
 اس کی دونوں کپٹیاں سفید ہو گئیں۔
 الْقَوْدُ بڑا اھٹلا۔ گون۔ فوج۔ کنارہ
 قَوْدُ الْخَبَاءِ او الْوَادِي - خیمہ یا
 وادی کا ایک کنارہ۔ ج۔ آفَوَادُ۔
 الْمَفْوَادُ تلف کرنے والا۔
 الْقَوْدَجُ - ہودج۔ دھن کی پالکی۔
 فَارَتْ تَفُورُ قَوْرًا وَقَوْرًا وَقَوْرًا -
 الْقَدْرُ ہانڈی کا جوش میں آنا۔ اور
 ابلنا۔ قَارَ الْمَاءُ پانی کا زمین سے پھوٹنا
 اور بہنا۔ الْعَرَقُ رگ کا مضطرب
 ہونا۔ پھڑکنا۔

قَارَ قَوْرًا وَقَوْرًا - الْمِسْكُ - خوشبو
 کا بھڑکنا۔ قَارَ قَوْرًا وَقَوْرًا - الْقَدْرُ
 ہانڈی کو جوش دینا۔ قَارَ الْمِيزَانَ -
 ترازو کے زبان کے ادھر ادھر کے
 لوسے بنانا۔
 الْفَارِ جوا۔ واحد۔ قَارَ قَارَةً - قَارَ قَارَةً -
 اونیوں کی کھال کے تر ہو جانے کے بعد
 کی بدبو۔
 الْقَوْسُ مَم - بہت جلدی۔ کہا جاتا ہے۔
 رَجَعَتْ مِنْ قَوْرٍ - بلا توقف بہت
 جلدی واپس ہوا۔ قَوْرٌ كَبْلُ شَيْءٍ ہر
 چیز کا اول۔
 الْقَوْرُ ہریاں۔ واحد قَوْرٌ کہا جاتا ہے۔
 "لَا أَفْعَلُهُ مَا لِأَثَرِ الْقَوْرِ" میں
 اس کو نہیں کروں گا جب تک کہ ہریاں اپنی
 دم ہاتی رہیں گی، یعنی کبھی نہیں کرے گا۔
 الْقَوْرَةُ - مِنَ الْحَرِّ او الْغَضَبِ - گرمی یا
 غصہ کی تیزی۔ قَوْرَةُ الْفَارِ دن کی
 ابتدا۔ النّاسِ۔ لوگوں کے جمع ہونے
 کی جگہ۔ الْعِشَاءُ عشاء کی نماز کے
 بعد کا وقت۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْتُ
 الشَّيْءَ يَفْوَرِيهِ" یعنی میں نے اس کی
 چیز کو اس کی ابتدا ہی میں لے لیا۔
 الْفَيَارَان - ترازو کی زبان کے ادھر ادھر
 کے لوسے۔
 الْقَائِرُ فَا۔ کہا جاتا ہے "قَارَ قَارِيْرٌ"
 یعنی اس کا غصہ بھڑکا۔
 الْقَوَارِقُ ہانڈی کا بال۔
 الْقَوَارُ - مبالغہ کا صیغہ۔ بہت ہوشیلا۔
 الْقَبُورُ بہت جلدی غصیناک دینے والا۔
 الْقَوَارِقُ قَوْرٌ کا مونث۔ پانی کا چشمہ۔
 قوارہ۔
 فَارَدْنَ يَفُورُ قَوْرًا - بِالْمِيزَانِ - کامیاب
 ہونا۔ مِنَ الْمَكْرُوهِ - نجات پانا۔
 الرَّجُلُ ہلاک ہو جانا۔ مَرَجَانَا۔

قَوْرَنَ تَقْوِيْرًا - الرَّجُلُ گزرنے مارنا۔
 الطَّرِيقُ ظاہر ہونا۔ الرَّاحِي بِابِلِيْهِ۔
 چرواہے کا اپنے اونٹوں کے ساتھ جنگل
 طے کرنا۔ وَتَقْوِيْرُنَا - ایک جگہ سے دوسری
 جگہ جانا۔
 آفَارَ - فَلَانًا يَكْدَا - کامیاب کرنا۔
 الْفَارَقَةُ - دو کھجوں والا سامان - خیمہ۔ کہا
 جاتا ہے "حَرَبَ الْفَارَقَةُ بِالْمَفَارِقَةِ"
 اس نے بیابان میں خیمہ لگایا۔
 الْمَفَارِقَةُ نجات کی جگہ یا نجات کا سبب۔
 کامیابی کی جگہ یا اس کا سبب۔ ہلاکت کی
 جگہ یا سبب۔ وہ بیابان جس میں پانی نہ
 ہو۔ ج۔ مَفَارِقَاتٌ وَمَفَاوِزُ۔
 قَوْضٌ تَقْوِيْضًا - الْبَيْتُ الْأَمْرُ - اختیار
 سپرد کر دینا اور حاکم بنا دینا۔ الْمَرْأَةُ
 عورت کا بغیر مہر کے نکاح کر دینا۔
 فَادَضْنَهُ مَفَاوِضُهُ - فِي الْأَمْرِ - برابر ہونا
 برابر کا شریک ہونا۔ باہم بات چیت کرنا۔
 اور مذاکرہ کرنا۔
 تَفَاوَعَنَ - الْقَوْمُ فِي كَذَا - بعض کا بعض
 کے ساتھ شریک ہونا۔ الشَّرِيكَانِ
 فِي الْمَالِ - برابر کا شریک ہونا۔
 تَفَاوَضُوا فِي الْحَدِيثِ - بات چیت
 شروع کرنا۔ کہا جاتا ہے "قَوْمٌ قَوْضِيٌّ"
 ایسی جماعت کہ جس کا کوئی سردار نہ ہو۔
 سب برابر کے درجہ کے ہوں۔
 أَمْرُهُمْ - قَوْضِيٌّ يَكْتَفُهُمْ وَقَوْضُوهُمْ
 وَقَوْضُوهُمْ - یہ لوگ ایسے شریک
 شریک ہیں کہ ان میں سے ہر ایک شخص
 دوسرے کے معاملہ میں تصرف کا حق رکھتا
 ہے۔ أَمْرُهُمْ قَوْضِيٌّ يَكْتَفُهُمْ و
 قَوْضُوهُمْ وَقَوْضُوهُمْ - یعنی وہ سب
 مال میں برابر کے شریک ہیں کسی کو دوسرے
 پر ترجیح نہیں۔ کہا جاتا ہے "يَشْرُكُهُ"
 مَفَاوِضُهُ - ایسی شرکت کہ جس میں تمام

شریک مال اور تصرف اور دین کے لحاظ سے برابر ہوں اور ہر ایک دوسرے کا وکیل اور کفیل ہو۔ اور اس کے مقابلہ میں شرکۃ عنان ہے۔ اس میں تصرف میں سب برابر نہیں ہوتے اور نہ کوئی ایک دوسرے کا کفیل۔ مُقَاوَلۃُ الْعُلَمَاءِ۔ علمی مسائل میں مذاکرہ اور مباحثہ کہ جس کی وجہ سے ایک کو دوسرے کی تحقیق معلوم ہو جائے۔

الْقَوَاطِلُ۔ پیٹی جس کو خدام، چہر اسی اردی وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ جر۔ قَوَاطِلُ۔ اور عوام کے نزدیک دستی رد مال کو بھی کہتے ہیں کہ جس سے ہاتھ پونچھے جائیں۔ نیز اس کو المذنبۃ بھی کہتے ہیں۔

قَوَاطِلُ۔ ٹکڑ اور پیٹی کا پہنانا۔

كَافُظَرْنَ، يَفُوظُ قَوَاطِلًا وَقَوَاطِلًا۔ مرنا۔

کہا جاتا ہے "حَانَ قَوَاطِلُ" یعنی اس کی موت کا وقت قریب آگیا۔

الْقَوَاعُ۔ مِنَ الطَّيِّبِ۔ خوشبو کی مہک۔

مِنَ السُّودِ۔ زہر کی تیزی۔۔۔ مِنَ الشَّبَابِ۔ جوانی کی ابتدا۔

قَاعَرْنَ، يَفُوقُ قَوَاعًا۔ الطَّيِّبِ۔ خوشبو بھڑکنا۔ مہکنا۔

الْقَوَاعُ۔ مِنَ الطَّيِّبِ۔ خوشبو کی بھڑک۔

الْقَائِلَةُ۔ تیز خوشبو جو ناک کو بھر دے۔

الْقَوَعُ۔ منہ کی موٹائی۔

الْأَفْوَحُ۔ موٹے منہ والا۔ کہا جاتا ہے "نَحْمُ أَفْوَحًا، مَوَاطِنَهُ" "وَرَجُلٌ أَفْوَحٌ"۔

موٹے منہ والا مرد۔

فَاتَ يَفُوقُ قَوَاعًا۔ انگوٹے اور شہادت کی انگی کے ناخنوں کو ملا کر سائل کو اشارہ کرنا کہ تجھے اتنا سا بھی نہ ملے گا یعنی تجھے کچھ نہیں دوں گا۔

الْقَوُوفُ وَالْقَوُوفُ۔ گائے پل کا مشابہہ جواڑوں کے ناخنوں کی سفیدی۔ واحد قَوْفَةٌ و

وَفُوقَهُۥٓ جَرٌّ ۖ أَفْوَاتٌ ۖ
الْفُوقُ وَالْفُوقَةُ ۖ غلہ کے دانوں کے اوپر
کا پھلکا۔
ثَوْبٌ أَفْوَاتٌ وَثَوْبٌ مُفَوَّقٌ ۖ باریک
کپڑا۔ وہ کپڑا جس میں طول میں سفید
دھاریاں ہوں۔
فَاتِقٌ رَنٌ ۖ يَقُوقُ قَوْقًا وَقَوًّا ۖ الشَّيْءُ
بلند ہونا۔ أَصْحَابُهُ بِالْفَضْلِ ۖ او
العلم ۖ بمعصروں سے بڑھ جانا۔
قَوًّا ۖ بچکی آنا۔ قَوًّا وَقَوًّا ۖ
الرجُلُ ۖ مرنا۔ مرتے وقت سانس کا
نکلنے کے قریب ہونا۔
فَاتِقٌ قَوْقًا ۖ السَّهْمُ ۖ سوار تیر کو توڑنا۔
الشَّيْءُ ۖ توڑنا۔
فَاتِقٌ يَفَاتِقُ دَفِيقٌ يَقُوقُ فَاتًا وَدَقًا وَ
قَوًّا ۖ السَّهْمُ ۖ سوار میں کجی یا
شکستگی پیدا ہونا۔
قَوَّقَهُ ۖ علی قومہ ۖ فضیلت دینا ۖ فَوْقَ
السَّهْمِ ۖ تیر میں سوار ۖ لگانا۔
الْفَصِيلُ ۖ بچہ کوڑک رک کر دودھ پلانا۔
أَفَاتِي إِفَاتَةً ۖ مِنْ مَرَضِهِ ۖ محتیب
ہونا۔ الحَالِبُ ۖ دودھ پینے کے دودھ
دوہنے کے بیچ میں پٹھر جانا۔ أَفَاتِ
النَّاقَةُ ۖ اونٹنی کے تھن میں دودھ
جمع ہونا۔ صَفْتُ مُفِيقٍ وَمُفِيقَةٌ ۖ
ج ۖ مَفَاوِيقٌ ۖ أَفَاتِي السُّكْرَانِ
مِنْ سُكْرِهِ ۖ نشہ سے ہوش میں آنے
مِنْ النُّومِ ۖ بیدار ہونا۔ الْمَجْنُونُ
مِنْ جُنُونِهِ ۖ دیوانگی کے بعد عقل کا
لوٹ آنا۔ الزَّمَانُ ۖ تنگی کے بعد
فرخی لانا۔ عَنْهُ التُّعَاسُ ۖ نیند کا
اچٹ جانا اور بے چین کر دینا۔ مِنْ
غَفْلَتِهِ ۖ چوکنا ہونا۔ وَأَفْوَى
أَفْوَاثًا وَوَفِيقُ الْيَفَاتِ ۖ السَّهْمُ
تیر پھینکنے کے لیے وتر قوس پر سوار

رکھنا۔
تَفَوَّقُ - الشَّرَابُ - بخور اٹھوڑا کر کے پینا۔
- عَلَي قَوْمِهِ - اپنی برتری دکھانا۔
النَّاقَةُ - ایک مرتبہ دوہنے کے بعد بچہ کو
دودھ میں لگا کر دوبارہ دوہنا۔ الْفَصِيلُ
پہلی بار دودھ نکالنے کے بعد بچہ کا
مخضول میں لگنا اور دودھ پینا۔ مَالَةٌ -
مٹھر مٹھر خرچ کرنا۔
إِنْفَاقٌ إِنْفِاقًا - السَّهْمُ - سوار ٹوٹنا
- الْجَمَلُ - اونٹ کا لاغر ہونا۔ ہلاک
ہونا۔
إِنْفَاقٌ - الرَّجُلُ - محتاج ہونا۔ فقیر ہونا۔
إِسْتِغْفَافٌ - الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ - اوْمَرَضِهِ
او غفلتہ - نیند سے بیدار ہونا۔ مرض
سے صحت یاب ہونا۔ غفلت سے ہوشیار
ہونا۔ النَّاقَةُ - اونٹنی کو حملت دے کر
دوبارہ دوہنا۔
الْفَاقُ - کھانے سے بھرا ہوا بڑا پیالہ۔ جنگل
کٹنا۔
الْفَاقَةُ - حاجت - فقر - محتاجی - بھوکا رہنا۔
فَوْقُ - مِم - نقیض ہے تَحْتَ کی یعنی اوپر۔ اور
بہ طرف مکان ہے، کبھی زمانے کے لیے
بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے أَقَمْتُ
فَوْقُ شَہْرِ - یعنی میں نے ایک مہینہ
سے زیادہ قیام کیا۔ کبھی زیادتی اور فضل
پر دلالت کرتا ہے جیسے الْعَشْرَةُ فَوْقُ
الْمِئْتَةِ - اور هَذَا فَوْقُ ذَاكَ - اور
کبھی بطور اسم کے استعمال ہوتا ہے۔
کقولہ - وَإِذَا ذُكِرْتَ فَكُلُّ فَوْقٍ دُونَ
الْفَوْقَانِي - اور والا۔ تَحْتَانِ کی نقیض۔
الْفَوْقُ - سوار۔ ج - فَوْقٌ وَفَوَاقٌ - زبان
کا کنارہ۔ ہلارا ستہ - کہا جاتا ہے۔
”مَا أَرَدْتُ عَلَى فَوْقٍ“ - یعنی گیا، اور
لڑا نہیں۔ وَلَهُ مِنْ كَذَا سَهْمٌ ذُو
فَوْقٍ - یعنی اس کے لیے اس میں کثیر اور





کامل حصہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے۔ "هُوَ
أَعْلَاهُمْ فَوْقًا" وہ ان میں سب سے
زیادہ حصہ والا ہے۔

الْفُوقُ۔ سو فار میں کچی اور شکستلی۔
الْفُوقَةُ۔ سو فار۔ جہ۔ فُوقٌ وَفُوقًا۔
الْفَيْقَةُ۔ وہ دودھ جو دودھ دوہنے کے
وقت درمیان میں بھن میں جمع ہو جائے
۔ مِنْ اللَّيْلِ۔ رات کا اکثر حصہ۔

رَبِيقَةُ الصُّلْحَى۔ چاشت کی ابتدا۔
جہ۔ فَبِيقٌ وَفَيْقٌ وَفَيْقَاتٌ وَأَفْوَاقٌ
وَأَفَاوِيقٌ۔ جیسے تم بولتے ہو: أَرْضَعْنِي
أَفَاوِيقٌ بِرُكٍّ۔ یعنی اس نے میرے
ساتھ بہترین احسانات کیے۔ الْأَفَاوِيقُ
وہ پانی جو بادل میں جمع ہو جائے اور
قطرات اٹھوڑا رہے۔

الْفَوَاقُ وَالْفَوَاقِي۔ دودھ دوہنے
کے درمیان کا وقت۔ دوہنے والے کے
ہاتھ سے تھنوں کو دبائے اور ہاتھ کھولنے
کے درمیان کا وقت۔ اور اسی سے ان کا
قول ہے۔ "أَهْمَلْنِي قَدَرُ فَوَاقٍ
حَالِي" یعنی مجھے ذرا سی مدت دو۔
وَلَهُ مِنْ كَذَا سَهْمٌ ذُو فَوَاقٍ۔
اس کے لیے فلاں شے سے حصہ کامل
ہے۔ الْفَوَاقُ۔ جان کنی کے وقت کی
بچکی۔ اس کو عوام حاو وقتہ کہتے ہیں۔ جہ۔
أَفُوقَةٌ وَأَفِيقَةٌ۔ جہ۔ أَفُوقَاتٌ۔
الْفَوَاقُ۔ افاق کا اسم ہے۔

اسْتَفَاقَ۔ الْعَلِيلُ۔ بیماری کے بعد نقاہت
کا لاحق ہونا۔

الْفَائِقُ۔ فَا۔ ہر نوع میں خالص اور عمدہ
شے۔ جہ۔ فَاَيْفُوقٌ وَفُوقَةٌ۔ الْفَائِقُ
سراور گردن کے جوڑ کی جگہ۔ السَّهْمُ
الْفُوقُ۔ وہ تیر جس کا سو فار لوٹ
گیا ہو۔

نَشَاعِرٌ مُفِيقٌ۔ شاعر بلیغ۔ اونچے درجہ

کا شاعر۔
صَلَامٌ مُفَقِّقٌ۔ وہ کھانا جو تھوڑا تھوڑا لیا
جائے۔

الْفُوقُ۔ لوبیا۔
الْفُوقَالُ۔ لوبیا بیچنے والا۔ لوبیا پکانے والا۔
قَوْمٌ۔ روٹی پکانا۔

الْقَوْمُ۔ لہسن، گیہوں، چنا، روٹی، ہر وہ فلوہ
جس کی روٹی پکائی جائے۔ جہ۔ قَوْمَانِ۔
الْقَوْمَةُ۔ قَوْمٌ کا واحد۔ خوشہ۔ ایک
چٹکی۔ یعنی اتنی مقدار جو دو انگلیوں سے
اٹھائی جائے۔ جہ۔ قَوْمٌ۔

الْفَامِيُّ۔ سبزی فروش۔ کنجڑا۔
فَاةٌ يَفُوقُ قُوَهَا وَتَفُوقَةً۔ بکذا۔ بونا۔
وَتَفُوقَةُ الْمَكَانِ۔ مکان کی فراخی میں
داخل ہونا۔

قُوَّةٌ (س) قُوَهَا۔ فراخ دہن ہونا۔
قُوَّةٌ۔ فراخ دہن بنانا۔
قَاوَةٌ مُفَاوِهَةٌ وَفَاهِي مُفَاهَاةٌ۔
فَلَانًا گفتگو کرنا۔ فُرْخًا بایں کرنا۔

تَفَادَةٌ۔ الْقَوْمُ بكذا۔ آپس میں گفتگو کرنا
استفادًا استفاهًا واستفاهةً۔ کسی کے
بعد خوراک کا بڑھ جانا۔

الْقُوَّةُ وَالْفَاةُ وَالْفَيْقَةُ۔ منہ پر آفواک۔
قُوٌ۔ اسمائے ستہ مکبرہ میں سے ایک ہے۔ اس
کا اعراب حالت رفعی میں واو۔ حالت نصبی
میں الف اور حالت جری میں یاء کے ساتھ
آتا ہے۔ بشرطیکہ مفرد مکبر ہو اور یائے
مشکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف

مضاف ہو۔ پس اس کا استعمال بحسب
حوال مختلف قُوَّةٌ، فَاةٌ، فَيْقَةُ ہوگا۔
مَثَلُ قَمَرٍ قَمَرٍ قَمِيَةٍ۔ تم کہتے ہو۔
سَقَطَ لَقِيْلُو۔ یعنی وہ اپنے منہ کے
بل گر پڑا۔ كَلَمَتُهُ فَاةٌ إِلَى فَيْقٍ۔ یعنی
میں نے اس سے رو برو گفتگو کی۔ اس
میں فَاةٌ حال ہونے کی وجہ سے منصوب

میں فَاةٌ حال ہونے کی وجہ سے منصوب

ہے اور مبتداء قرار دے کر رفع بھی جائز
ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ پورے جملہ کو
حال قرار دیا جائے اور كَلَمَتُهُ قُوَّةٌ
إِلَى فَيْقٍ کہا جائے۔

الْقُوِيَّةُ۔ فُوہ کی تصغیر۔ چھوٹا منہ۔
الْقُوَّةُ۔ منہ کی کشادگی۔ دانوں کا لمبا ہونا اور
ہونٹوں سے باہر نکلنا۔

الْقُوَّةُ وَالْقُوَّةُ۔ باریک لمبی اور سُرخ
رنگ کی ایک درخت کی جڑیں جو رنگائی
کے کام میں آتی ہیں اور بعض امراض کے
علاج میں بھی مستعمل ہیں۔

الْقُوَّةُ۔ فَاةٌ کا اسم مرہ۔ منہ۔
الْقُوَّةُ۔ مِنَ الْوَادِي وَالطَّرِيقِ وَ
جَبَلِ النَّارِ۔ وادی یا راستہ یا آتش فشاں
پہاڑ کا دبانہ۔ جہ۔ قُوَّهَاتٌ۔

الْقِيَّةُ۔ بہت بولنے والا۔ بلیغ۔ بہت
کھانے والا۔ آدمی یا جانور۔ مَوْنَثُ
قِيَّةٌ۔
الْقُوَّةُ۔ اول شے۔ مِنَ الْوَادِي وَ

الطَّرِيقِ وَجَبَلِ النَّارِ۔ وادی یا راستہ
یا آتش فشاں پہاڑ کا دبانہ۔ جہ۔
قُوَّهَاتٌ وَأَفْوَاكٌ وَقَوَائِدُ۔

الْقُوَّةُ۔ گفتگو۔ غیبت۔ کہا جاتا ہے
"فَلَانٌ يَخَافُ قُوَّةَهُ النَّاسِ" یعنی
فلاں شخص لوگوں کی غیبت سے خائف
رہتا ہے۔ أَكْتُ لَذُو قُوَّةَةٍ۔ وہ
بڑا تیز زبان، زبان زور ہے۔ إِنْ رَدُّ
الْقُوَّةُ لَشَدِيدٌ۔ منہ سے نکلی ہوئی
بات لوٹنا دشوار بات ہے۔

الْأَفْوَةُ۔ جوڑے منہ والا۔ مَوْنَثُ قُوَّهَاءُ۔
جہ۔ قُوَّةٌ۔ طَعْنَةُ قُوَّهَاءٍ۔ نیزے کا
وسیع زخم۔

الْأَفْوَاكُ۔ جہ۔ أَفَاوِيقٌ۔ مصالحے خوشبو کی
ڈبیاں۔ قسین۔ واحد قُوَّةٌ۔

الْمُقَوُّوُ۔ بڑا بولنے والا۔ بلیغ۔ کہا جاتا ہے

خَطِيبٌ مَقْوَةٌ - عمدہ خطبہ دینے والا۔
شَرَابٌ مَقْوَةٌ - خوشبودی ہوئی شراب۔
الْمَقْوَى وَالْمَقْوَى - قُوہ سے رنگا ہوا۔
الْقُو - وہ گھاس کہ جس سے مرض و جع الجنب
اور داء الشعب کا علاج کرتے ہیں۔
ارضٌ مَقْوَاةٌ - وہ زمین جس میں گھاس
بہت ہو۔

رفی - حرف جر معانی ذیل پر دلالت کرتا ہے
ظرفیت جیسے الخمر فی الزق -
مصاحبت جیسے قمت فی شروق
الشمس - تعیل جیسے قیل فی
ذنبہ - المقایستہ جیسے ما علمی
فی بحره الاقطرة - استعلاء جیسے
لا صربتکم فی جزوع النخل
ای علی جزوعها - نیز بآء الی من
کا مراد ہے اور ہم معنی بھی ہے جیسے
أنت بصیر فی عمالک - و رد
یئدہ فی جیبہ - دمضت علی
ثلثہ اشھر فی ثلث سنین -

قَاءَ یَفِی قَبًا - لوٹنا - الظل - سایہ کا
ہٹ جانا - الغنیمۃ - مال غنیمت کو
کو لینا اور غنیمت قرار دینا -

قَاءَ قَبًا وَفِیوً - الامر کسی بات اور
امر کی طرف رجوع کرنا -

قَبًا تَفِیوً - الشجر - درخت کا
سایہ دار ہونا -

قَبَاتٌ - الوباء العُصُون - ہوا کا
ٹہنیوں کو بلانا -

أَفَاءَ إِفَاءً - الظل - سایہ کا لوٹنا -
أَفَاءَ - الی کذا - لوٹانا - أَفَاءَ اللہُ عَلَیْکَ
مَالِ الْقَوْمِ - قوم کے مال کو غنیمت قرار دینا
أَفَاءَ عَلَی الْقَوْمِ قَبًا - ایک قوم کا
مال لے کر دوسروں کو بطور غنیمت کے
دینا -

تَفِیًا تَفِیوً - الظل - سایہ کا پلٹنا -

الشجرة وَفِی الشجرة - درخت سے
سایہ حاصل کرنا - سایہ ڈھونڈنا - کہا
جاتا ہے تَفِیًا تَفِیوً - کسی کی پناہ
لینا -

اسْتَفَاءَ اسْتَفَاءً - لوٹنا - الْمَالُ -
مال غنیمت لینا - الْأَخْبَارُ - خبروں کی
دیکھ بھال کرنا -

الْفی - سایہ غنیمت - مخرج - جہ - أَفَاءَ
وَفِیوً -

الْفی - پرندوں کی ایک ٹکڑی -

الْقَبِیۃ - اسم مرہ - رجوع - کہا جاتا ہے -
أَنَّهُ حَسَنُ الْقَبِیۃ - وہ بہتر والی
والا ہے - کہا جاتا ہے - دَخَلَ عَلَی
تَفِیۃ فَلَیۃ - یعنی فلاں کے نقش
قدم پر داخل ہوا -

الْمَفَاءُ - افاء کا اسم مفعول -

الْمَفِیۃ وَالْمَفِیوۃ - وہ جگہ جہاں
دھوپ نہ آئے - ہمیشہ سایہ رہے -
سایہ دار جگہ -

أَفَاءَ - فی عَدْوٍ - دوڑنے میں دیر کرنا
- الْقَوْمُ فی الارض - ملک میں
پھیل جانا -

الْقَبِیۃ - پیک - پیامبر ایلچی - ہر کارہ - خادم -
لوگوں کی جماعت - پست زمین - جہ -

فِیوً - یہ کلمہ دخل ہے -
الْفَارِجۃ - دو پہڑوں کے درمیان وادی
جہ - قَوَائِمُ -

قَاءَ یَفِی قَبًا وَفِیوً - الْحَرُ - گرمی
کا تیز ہونا - فَاحِشَ الْقَدَرُ - ہانڈی کا
جوش مارنا -

قَاءَ قَبًا وَفِیوً - الرَّبِیعُ - سرسبز
ہونا - الدَّمُ - خون گرنا - بہنا -
الشَّجۃ - زخم کا بہت مقدار میں
خون بہنا -

قَاءَ یَفِی قَبًا وَفِیوً - کثادہ ہونا

قَاءَ یَفِی قَبًا وَفِیوً - کثادہ ہونا

قَاءَ یَفِی قَبًا وَفِیوً - کثادہ ہونا

فَاحِشَ الْفَارِجۃ - غارت کا وسیع ہونا
منتشر ہونا -

قَبِیۃ - الشی - کسی چیز کو کثرت اور وسعت
کے ساتھ تقسیم کرنا اور اسی سے ہے -
”لَوْ مَلَکْتُ الدُّنْیَا لَفِیَحَتْهَا فِی یَوْمٍ
وَاحِدٍ“ - اگر میں دنیا کا مالک ہو جاتا تو
ایک ہی دن میں لوگوں پر تقسیم کر دیتا -

أَفَاءَ - الْقَدَرُ - جوش دینا - أَفَاءَ الدِّیۡۃَ
خون بہانا -

الْقَبِیۃ وَالْقَبِیۃ - کثادگی -

قَبِیۃ - اسم بے غارت کا - کہا جاتا ہے -

قَبِیۃ فِی قَبِیۃ - اے غارت پھیل
جا اور منتشر ہو جا - غارت - لوٹ ڈالنے
والے گھوڑوں کو کہتے ہیں -

الْقَبِیۃ - صیغہ مبالغہ - قَبِیۃ - بَحْرُ

قَبِیۃ - بہت وسیع سمندر - رَجُلٌ

قَبِیۃ - قَبِیۃ - بڑا سخی آدمی - مَوْنٌ
قَبِیۃ -

الْقَبِیۃ - کثادہ - مَوْنٌ قَبِیۃ - جہ
قَبِیۃ -

الْقَبِیۃ - وسیع مکان - نیز مذکور الذیل شہروں
کا لقب بھی ہے - بقرہ - دمشق - طرابلس
شام -

قَاءَ یَفِی قَبًا وَفِیوً - قَبِیۃ - قَبِیۃ -
قَبِیۃ - قَبِیۃ - قَبِیۃ -

قَاءَ یَفِی قَبًا وَفِیوً - قَبِیۃ - قَبِیۃ -
قَبِیۃ - قَبِیۃ - قَبِیۃ -

قَاءَ یَفِی قَبًا وَفِیوً - قَبِیۃ - قَبِیۃ -
قَبِیۃ - قَبِیۃ - قَبِیۃ -

قَاءَ یَفِی قَبًا وَفِیوً - قَبِیۃ - قَبِیۃ -
قَبِیۃ - قَبِیۃ - قَبِیۃ -

قَاءَ یَفِی قَبًا وَفِیوً - قَبِیۃ - قَبِیۃ -
قَبِیۃ - قَبِیۃ - قَبِیۃ -

قَاءَ یَفِی قَبًا وَفِیوً - قَبِیۃ - قَبِیۃ -
قَبِیۃ - قَبِیۃ - قَبِیۃ -



<p>دَاؤُ الْبُغْيَلِ - ایک بیماری ہے جس میں پاؤں سوچ جاتا ہے۔ اس کو بغیل یا کتے ہیں۔</p> <p>الْقَيَْالُ - ہاتھی کا محافظ۔ صاوت۔ جہ قبائلہ</p> <p>فَالُ - الراي وفائيلہ وفيدہ۔ کمزور رائے والا۔</p> <p>قَبْلُ - اللحم - ہت گوشت والا۔ الراي ضعیف الرائے۔ جہ - اقْبَالُ۔</p> <p>الْقَبَالَةُ - رائے کی کمزوری۔</p>	<p>الْمُفْوَلَةُ - ہاتھی کے بچے۔</p> <p>الْقَبْلَةُ - ریشم کے کیڑے کا جال۔ جہ قَبْلَجُ۔</p> <p>الْقَبْلُ - بڑا لشکر بڑا آدمی۔ جہ - قَبْلَانُ۔</p> <p>الْقَبْلُ - بزدل۔ کشادہ منہ کا کنواں۔</p> <p>کنگھا۔ دسترخوان کے نیچے بچھانے کا چمڑا۔ پھٹ کی کثرت۔ جہ - قَبْلَانُ۔</p> <p>(د - والقَبْلَانُ) ہت۔ قد آور موٹا آدمی۔</p>	<p>قَاتَ يَعْفِينُ قَيْدًا - آنا۔</p> <p>الْقَيْنَةُ - زمانہ۔ وقت۔</p> <p>الْقَيْنَانُ - خوبصورت لمبے بالوں والا۔ مؤنث قَيْنَانَةٌ۔</p> <p>تَقْيَهُقُ - فی الكلام۔ ہت پھیلا کر گفتگو کرنا۔</p> <p>- فی مَشْيِهِ - ناز سے چلنا۔ علیہ کذا۔ بڑا ہنسا۔</p> <p>الْقَيْهُقُ - ہر کشادہ چیز۔ جہ۔</p> <p>قَبَاهِقُ۔</p>
--	--	---

ق

<p>قَابُ، قَابُاف، الطَّعَامُ - کھانا کھانا۔</p> <p>قَابُ الْمَاءِ - پانی پینا۔</p> <p>قَبْبُ قَابًا وَقَابَارًا - صِنُّ الشَّرَابِ زیادہ مقدار میں پینا۔</p> <p>الْقَوَابُ - الْقَوَابِي - صِنُّ الْإِنَاءِ - وہ برتن جس میں زیادہ پانی سماتا ہو۔</p> <p>الْقَوَابُ - الْقَوَابُ - زیادہ پینے والا۔</p> <p>الْقَوَابُ - کوؤں کی آواز۔</p> <p>الْقَبْقَبُ - انڈے کی سفیدی۔</p> <p>قَابِي قَابِيَانُ، - الرجلُ - جریب کا حق مان لینا۔ مطیع ہونا۔</p> <p>قَبْتُ قَبَّارِضَ - النِّبَاتُ - گھاس کا خشک ہونا۔ قَبْتُ الشَّيْءِ - اس کے اطراف کو جمع کرنا۔ قَبْتُ الْقَبْلَةِ - گنبد تعمیر کرنا۔</p> <p>قَبْتُ قَبَّارِضَ، - يَدُ فُلَانٍ - کسی کا ہاتھ کاٹنا۔</p> <p>قَبْتُ قَبَّارِضَ، اللحمُ ونحوہ گوشت وغیرہ کا خشک ہونا۔ تروتازگی کا جاتا رہنا۔</p> <p>قَبْتُ - القومُ - قوم کا جھگڑے میں شور کرنا۔</p> <p>قَبْتُ قَبَّارِضَ، الرَّسَدُ أو الْقُلُ - دانت چبانے کی آواز آنا۔ قَبْتُ طَلَةِ الثَّوْبِ - کپڑے کو پیٹنا۔</p>	<p>قَبْتُ وَقَبْتُ قَبَّارِضَ، - الْخَصْمُ أو الْبَطْنُ - کوکھ اور پیٹ کا پتلا اور دہلا ہوجانا۔</p> <p>قَبْتُ - الرجلُ - گنبد تعمیر کرنا۔ قَبْتُ الْبَيْتِ - مکان پر گنبد بنانا۔ قَبْتُ الْقَبْرِ - کھجور کا خشک ہوجانا۔ قَبْتُ الشَّيْءِ - کسی چیز کے اطراف کو اکٹھا کرنا۔</p> <p>تَقَبَّتْ الْقَبْلَةُ - گنبد میں داخل ہونا۔</p> <p>أَقْبَبْتُ يَدَكَ - کسی کا ہاتھ کاٹنا۔</p> <p>الْقَبْتُ - نرسانہ، قوم کا سردار۔</p> <p>الْقَبْتُ - ہر دوسرے کے درمیان اٹھی ہوئی بڑی۔</p> <p>الْقَبْتُ - کوکھ کا پیٹ کا دہلا پن۔</p> <p>الْقَبْلَةُ - عمارت جس کی چھت گول اور اندر سے خالی ہو۔ گنبد۔ جہ - قَبَابُ و قَبْبُ - قَبْلَةُ الْإِسْلَامِ - بصرہ۔</p> <p>قَبْلَةُ الشَّهَادَةِ - ریمود کے نزدیک ایک نیمہ جس میں ہوتا تابت عہد پوشیدہ کرتے تھے اور اس کو قَبْلَةُ الزَّمَانِ بھی کہا جاتا ہے۔ الْقَبْلَةُ الْخَضْرَاءُ أو الذَّرْقَاءُ - آسمان۔</p> <p>الْقَابُ - آئندہ آنے والا تیسرا سال۔ محاورہ ہے کہ إِنَّكَ لَا تَفْجَحُ الْعَامَ الْخَامِيَ</p>	<p>وَلَا الْقَابِلُ وَلَا الْقَابُ - یعنی تو نہ امسال کامیاب ہوگا نہ اگلے سال نہ تیسرے سال۔</p> <p>الْقَبَابُ - مبالغہ کا مبالغہ ہے۔ شہیر۔</p> <p>الْقَبَابُ - صِنُّ السُّيُوفِ وَنَحْوِهَا - تلوار و پیرہ جو بہت تیز ہو۔ الْقَبَابُ صِنُّ الْأَنْوَابِ - ہت موٹی ناک۔</p> <p>الْأَقْبُ - صِنُّ الْخَيْلِ - پتلی کوکھ اور دہلے پیٹ کا گھوڑا۔ مَوْنُتُ قَبَابُ - جہ۔</p> <p>قَبْتُ - الْقَبْقَبُ - مسلسل روزہ رکھنے والا۔ جس کی کوکھ اور پیٹ فُطے پتے ہو جائیں۔</p> <p>الْقَبْبُ - خشک شدہ گھاس۔</p> <p>الْأَقْبُ وَالْمَقْبُ وَالْمَقْبُوبُ - دہلا پتلا۔</p> <p>الْقَبْبُ - چکور کے مشابہ ایک پرندہ۔ اس کا واحد قَبْبَةٌ ہے۔ مذکر مَوْنُتُ دُونوں پر دہلا جاتا ہے۔</p> <p>قَبْبَةُ قَبَّارِضَ وَقَبَّارِضَ وَقَبَّارِضَ قَبَّارِضَ وَقَبَّارِضَ (دوم) بد صورت ہونا۔ بد نما ہونا۔</p> <p>قَبْبَةُ قَبَّارِضَ وَقَبَّارِضَ (دوم) (۵)</p>
---	--	--



اللَّهُ عَيْنَ الْخَيْرِ - خدا کا کسی کو خیر سے دور کر دینا۔ مفعول مقبوضہ۔ قَبْرٌ كَرِيمٌ وَجْهَهُ كَسَى كَوْفَهُ اللَّهُ كَبْنَا - قَبْرٌ الْبَيْضَةُ - اٹلے کو توڑنا۔ قَبْرٌ عَلَيْهِ فِعْلُهُ - کسی کے کام کی خرابی ظاہر کرنا۔ قَبْرٌ لَهُ وَجْهَهُ - کسی کے کام کی برائی کرنا۔

قَابَحَهُ مُقَابَحَةً - ایک دوسرے کو گالی دینا۔

قَبْرُ الرَّجُلِ - کسی آدمی کا بڑا کام کرنا۔

اسْتَقْبَعَ الشَّيْءُ - کسی چیز کو برا سمجھنا۔

قَبْرٌ - قول یا فعل یا شکل کا بڑا ہونا۔

قَبْرٌ - بڑا۔ بدنام۔ ہر قبائح و قبیحی و قبا ح - انقباض۔ ران اور پنڈلی کے طے کی جگہ۔ بازو کی بڑی کانٹا رہ جو کئی سے متصل ہے۔

الْقَبْرِحَةُ - بری بات۔ برا کام۔ ہر۔ قبا ح و قبا ح -

قَبْرٌ قَبْرٌ دَمَقَبْرًا (رضن، المیتیت میت کو دفن کرنا۔

أَقْبَرُ - کسی کے لیے دفن کرنے کو قبر بنانا۔

أَقْبَرُ الْقَوْمِ - قوم کو مقتول کے دفن کی اجازت دینا۔ قوم کو مقتول دفن کے لیے دینا۔

القَبْرِ - آدمی کے دفن کا مقام۔ قبر۔ ہر۔ قَبْرٌ

القَبْرَةُ وَالْقَبْرَةُ وَالْقَبْرَةُ وَالْقَبْرَةُ

چندوں (ایک چڑیا کا نام) ہر۔ قَبْرٌ و قَبْرٌ و قَبْرٌ

القَبْرُ - رات کے تھکار کے لیے چراغ۔ قوم جو

جال کے تھکار کو کھینچنے کے لیے جمع ہو۔

الْقَبْرُ - نیشی زمین۔ المقبر والمقبرة

المقبرة والمقبرة والمقبرة والمقبرة

قبرستان گورستان۔ ہر۔ مقابر

المقبر والمقبر - سبب بمقبرہ۔

القَبْرُ - عمدہ تانا۔ مجرم کا ایک بڑا جزیرہ۔

اس کی نسبت قَبْرُ سَمِی - ہر۔ قَبْرُ سَمِی -

القَبْرُ - بجانے کا ایک ساز۔

القَبْرُ - کوتاہ قد۔ ٹھکانا۔ بخیل۔

قَبْرٌ (رض) قَبْرًا - مِنْهُ النَّارُ - آگ کو بصورت شعلہ لینا۔ قَبْرٌ النَّارُ - آگ

جلانا۔ قَبْرٌ الْعِلْمُ - علم سے فائدہ اٹھانا۔

قَبْرُ النَّارِ - کسی کے واسطے آگ لانا۔

أَقْبَسُ فَلَانًا الْعِلْمُ - کسی کو علم سکھانا۔

أَقْبَسُ فَلَانًا - کسی کو آگ دینا۔

أَقْبَسَ - مِنْهُ النَّارُ وَالْعِلْمُ - کسی سے آگ یا علم حاصل کرنا۔ أَقْبَسَ مِنْ الْعِلْمِ - علم سے فائدہ اٹھانا۔

أَقْبَسَهُ نَارًا - کسی سے آگ لینا۔

القَابِسُ (فاعل) آگ کا طالب۔ ہر۔

أَقْبَسَ - اصل۔

القَبْسُ وَالْمَقْبَسُ - آگ کا وہ شعلہ جو بڑی آگ سے لیا جائے۔

القَبْسَةُ - ایک مرتبہ آگ لینا۔ قَبْسَةُ الْعَجَلَانِ - جلدی کے بارے میں ایک

مثال ہے۔ یعنی اس شخص کی مانند جو گھریں داخل ہو اور صرف آگ لینے تک ٹھہرے۔

القَابُوسُ - خوبصورت و گورا آدمی۔

القَوَالِیْسُ - لوگوں کو خیر سکھانے والے۔

المَقْبِیْسُ - لکڑی کا جتنا ہوا مقام۔ ہر۔

مَقْبِیْسُ -

المَقْتَبِیْسُ - آگ کا انگارہ۔ جتنا ہوا کوئلہ۔

المَقْبِیْسُ وَالْمَقْبِیْسُ - جس چیز سے آگ لی جائے۔ آگ لینے کا آلہ۔

قَبْصٌ (رض) قَبْصًا - الفرس گھوڑے کا

اتنا تیز دوڑنا کہ صرف کھڑا کنارہ زمین کو لگے۔ مَقْتَبِیْسُ - قَبْصٌ الدَّجَلُ

آدمی کو سیراب ہونے سے قبل پینے سے

منقطع کر دینا۔ قَبْصُ الْغُلَامِ - لڑکے کا

بالغ ہونا۔ قَبْصُ الشَّيْءِ - انگلیوں کے

کنارے سے کسی چیز کو پکڑنا۔ چٹکی سے

کوئی چیز لینا۔

قَبْصٌ (رس) قَبْصًا - کھوپری کا بڑا ہونا۔

در قَبْصٍ لَاحِقٍ ہونا۔ ہلکا اور چست ہونا۔

قَبْصٌ وَتَقَبْصٌ - الْجَوَادُ عَلَى الشَّجَرِ

ٹڈیوں کا درخت پر ٹوٹ پڑنا۔

أَقْتَبَصَ قَبْصَةً - مِنْ كَذَا - کسی چیز سے

چٹکی بھر کر لینا۔

القَبْصُ وَالْقَبْصُ - ریت کا بڑا تودہ۔

القَبْصُ - لوگوں کی ایک بڑی تعداد۔

القَبْصُ وَالْقَبْصُ - درد جگر جو چھوٹا مارے

یا کھجور نار منہ کھانے اور اس پر پانی پینے

سے ہوتا ہے۔

القَبْصَةُ وَالْقَبْصَةُ - ہر۔ قَبْصٌ -

وَالْقَبْصَةُ - وہ مقدار جو چٹکی میں آئے۔

القَبْصَةُ مِنَ الطَّعَامِ - وہ مقدار جو

ایک لب میں سمائے۔ مٹی کا تودہ بکری

القَبُوسُ - ہلکا و چست۔ حَبْلٌ قَبْصٌ -

رسی جو زیادہ لمبی نہ ہو۔

القَبْصِيُّ - نہایت تیز دوڑ۔

الْأَقْبَصُ - بڑے سرو والا۔ مِنَ الْخَيْلِ -

چست و ہلکا گھوڑا۔ وہ شخص جو چلتے

ہوئے اپنے قدم کے اگلے حصہ سے اس

طرح مٹی اڑائے کہ ایڑی مقام پر پڑے

مَوْثٌ قَبْصًا - ہر۔ قَبْصٌ -

القَبْصَاءُ - بڑی کھوپری۔ بڑا سر۔

القَبْصِيُّ - مٹی کا تودہ۔

القَوَالِیْسُ - گردہ جماعتیں۔ واحد قَابِصَةٌ

المَقْبِیْسُ - وہ رسی جو گھوڑ دوڑ کے وقت

گھوڑوں کے سامنے تانی جاتی ہے۔ ہر۔

مَقْبِیْسُ -

حَبْلٌ مَقْبِیْسٌ - وہ رسی جو زیادہ لمبی نہ ہو۔



قَبَضَ (رض) قَبْضًا - بیدار شد و علی

الشیء کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑنا اور اس

پر انگلیاں جمادینا۔ يَدًا عَنِ الشَّيْءِ

پکڑنے سے باز رہنا۔ عَنِ الْأَمْرِ

کسی کام سے باز رکھنا۔ رَوَّكْنَا قَبْضَهُ

اللہ۔ خدا کا کسی کو مار دینا۔ قَبَضَ

الشيء شيئًا مختفراً۔ الحادي

الاول۔ اونٹ کو تیز چلانا۔ الطائرُ

جتاحاً۔ بازو اور پروں کو جمع کرنا۔

الدَّارُ وَنَحْوَهَا۔ مکان وغیرہ پر قابض

ہونا۔ محاورہ ہے کہ اِنَّهُ يَقْبِضُنِي مَا

قَبْضُكَ۔ مجھے بے چین کرتی ہے ہر وہ

چیز جو مجھے بے چین کرتی ہے، یا فُلَانٌ

الْخَيْرُ بَسِطَةٌ وَالشَّرُّ لِقَبْضَةٍ

دُفْلَانٌ کو خیر کشادہ روکتی ہے اور شر

اس کو برہم کرتا ہے، اللہ يَقْبِضُ د

يَبْسُطُ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تنگی دیتا

ہے اور کسی کو خوشحال کرتا ہے

قَبْضُ (رض) قَبْضًا قَبْضًا - مِنْهُ

المال۔ اپنے واسطے مال لینا۔ قَبْضَةُ

مٹھی بھرنا۔

قَبْضُ (رض) قَبْضًا وَالْقَبْضُ - فِي

حَاجَتِهِ۔ اپنی ضرورت کے لیے جلدی

کرنا۔ تیار کرنا۔ القومُ قوم کا جلدی

کرنا۔ چلنا۔ الرجلُ عَنِ الْقَوْمِ

کسی آدمی کا قوم کو چھوڑ دینا۔ بَطْنُهُ

قبض ہونا۔ الْقَبْضُ الشَّيْءُ اکٹھا

ہونا۔ سمٹنا۔

قَبْضُ - الْمَوْتُ قَبْضًا - قَرِيبَ الْمَوْتِ ہونا۔

مر جانا۔

قَبْضُ - الشَّيْءُ اکٹھا کرنا۔ سمٹنا۔ محاورہ ہے

كَه قَبْضٌ وَجْهَهُ فَتَقْبِضُ رَأْسَ لِي

اپنا منہ چڑھایا پس وہ سکر گیا قَبْضُ

مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ پیشانی پر بل ڈالنا

قَبْضُ الْمَالِ فُلَانًا مال کسی کے قبضہ

میں سے دینا۔

قَابِضَةٌ مُقَابِضَةٌ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ

دینا۔

أَقْبَضَ - السَّيْفَ - تلوار کے لیے قبضہ بنانا

- فُلَانًا لِمَتَاعٍ اسباب پر قبضہ

کے لیے ابھارنا۔

تَقْبِضُ سَكْرًا جانا۔ جمع ہونا۔ الْجُلْدُ فِي

النَّارِ کھال کا سکر جانا۔ الرَّجُلُ

عَنِ الْأَمْرِ کسی چیز سے بچنا۔ مُتَنَفِّرٌ بِنَا

- الْكِبْيَةِ - كودنا۔ اچھلنا۔ عَلَى الْأَمْرِ

کسی معاملہ پر توقف کرنا۔

تَقَابَضَ الْمُتَبَايِعَانِ - بائع کا قیمت پر اور

مشتري کا بیع پر قابض ہو جانا۔

الْقَبْضُ - تیز چلانا۔ تیزی سے ہنکانا۔ محاورہ

ہے - صَارَ الْمَالُ فِي قَبْضِهِ - مال اس

کی ملکیت میں آ گیا۔

الْقَبْضُ - مضمون مال سکرنا۔ تیزی سے چلنا

مال غنیمت جو تقسیم سے قبل جمع کیا جائے

الْقَبْضَةُ - ایک مرتبہ قبض کرنا۔ محاورہ ہے

صَارَ الشَّيْءُ فِي قَبْضَتِهِ - چیز اس کی

ملکیت میں آ گئی۔ قَبْضَةُ السَّيْفِ

تلوار کا قبضہ۔

الْقَبْضَةُ وَالْقَبْضَةُ - جس پر قبضہ کیا گیا ہو

- مِنَ الشَّيْءِ کسی چیز سے مٹھی بھر

الْقَبْضَةُ - اپنی بکریوں کے بارے میں عمدہ

تدبیر کرنے والا چرواہا۔ محاورہ ہے -

رَجُلٌ قَبْضَةٌ رَقْضَةٌ - وہ شخص

جو کسی چیز کو جلدی پکڑے اور جلدی

چھوڑ دے۔

الْقَابِضُ وَالْقَبْاضَةُ - سکرنا۔ جلدی

الْقَابِضُ وَالْقَبْاضَةُ - شدید قبض کرنے والا۔

تیز ہنکانے والا۔

الْقَابِضُ دَافِعٌ - مِنَ الطَّعَامِ - وہ کھانا

جو زبان کو پکڑے - مِنَ الْأَذَى وَيَكُونُ

وہ دوائیں جو قبض شکم پیدا کریں۔ تیز

زوتار چلائے والا شخص۔ قَابِضُ الْأَرْوَاحِ

عزرائیل۔

الْقَبْضُ سکرنا ہونا۔ تیز رفتار۔ دانہ۔ جو اپنے

فنی کی طرف متوجہ رہنے والا ہو۔

الْمَقْبِضُ وَالْمَقْبِضُ وَالْمَقْبِضُ وَالْمَقْبِضُ

الْمَقْبِضَةُ وَالْمَقْبِضَةُ وَالْمَقْبِضَةُ

تلوار وغیرہ کا مٹھیا۔ قبضہ۔ جمع ہونا۔

قَبْضًا قَبْضًا - الشَّيْءُ چیز کو اپنے ہاتھ

سے جمع کرنا۔ مخلوط کرنا۔

الْقَبْطُ مصر میں عیسائیوں کا ایک فرقہ۔ واحد

قَبْطِيٌّ۔ ج۔ أَقْبَاطٌ۔

الْقَبْطِيَّةُ وَالْقَبْطِيَّةُ - کتان سے بنا ہوا

کپڑا۔ قبط کی طرف منسوب۔ ج۔ قَبْطِيٌّ

قَبْطِيٌّ۔

الْقَبْطَا وَالْقَبْطِيَّةُ وَالْقَبْطِيَّةُ وَالْقَبْطِيَّةُ

ایک قسم کی مٹھائی۔ ریوڑی۔

قَبْعَ (ف) قُبُوعًا - الْقُبُوعُ - سببہ کا اپنی

کھال میں سر کو چھپانا۔ الرَّجُلُ فِي

قَبْعِهِ آدمی کا گریبان میں سر داخل

کرنا۔ دَاسَةُ - سر کو اپنے کپڑے میں داخل

کرنا۔ فِي الْأَرْضِ - زمین میں جانا۔ قُبْعًا

الْعَبْوَالِقُ گون یا بوری کے کنارے

مورنا۔ قُبْعًا وَقُبُوعًا - عَنْ أَحْجَابِهِ

اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جانا۔

النَّجْمُ - ستارہ کا ٹکنا اور پھر غروب

ہو جانا۔ الرَّجُلُ - آدمی کا عاجز و خستہ

ہونا۔ الْمَرْأَةُ - عورت کا پوشیدہ ہونا۔

قَبْعًا وَقَبْعًا وَقَبْعًا - الْخَضِرُ

سُور کا پھنکارنا۔ الْغَبْلُ - ہاتھی کا

چنگاڑنا۔ وَاقْتَبَعَ الْمَزَادَةَ - مشکیزہ

سے منہ لگا کر پینا۔

الْقَبْعُ - الطَّائِرُ فِي وَكْرِهِ - پرندہ کا اپنے

گھونسلہ میں داخل ہونا۔ الرَّجُلُ - آدمی

کا اپنے سر کو کپڑے میں داخل کرنا۔

الْقَبْعُ - بگل۔



اللَّهُ قَبْلَهُ - اللہ تعالیٰ برقرار رکھے
اس کے آگے آنے والی چیز کو۔ دایہ کی
مہارت بچہ نکلنے میں۔ ہر وہ چیز جو ابتدا
میں نظر پڑے۔ کلام کا فی البدیہہ کہنا۔
ما تھی دانت وغیرہ کی بنی ہوئی چیز جو عورت
کے سینہ یا گھوٹے کے گلے میں لٹکا کر
جاتی ہے۔ الْقَبْلُ فِي الْعَيْنِ - آنکھ
کی سیاہی کا ناک کی طرف مائل ہونا۔
فِي الْعَيْنَيْنِ - دونوں آنکھوں کی نظر کا
ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا۔
الْقَبْلُ - طاقت۔ قدرت۔ جیسے مَالِي رِبَاهٍ
قَبْلُ مجھے اس پر قدرت نہیں۔ بولا
جاتا ہے کہ لِي قَبْلُ فَلَا يَنْ دَيْنُ -
میرا فلاں پر قرض ہے۔ اسی طرح
آتَانِي مِنْ قَبْلِهِ - اس کی طرف سے
میرے پاس آیا۔
الْقَبْلَةُ - اسم نوع ہے۔ جانب۔ قَبْلَةُ
الْمُصَلِّي - وہ جانب جس کی طرف نماز
پڑھی جائے۔ کعبہ۔ وہ چیز جس کی طرف
استقبال کیا جائے۔ محاورہ ہے۔ مَا
لَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَبْلَةٌ وَلَا دُبْرَةٌ
اس کو اس معاملہ میں آگے پیچھے ہاتھ
مارنے کی گنجائش نہیں۔ وَاجْعَلُوا
بُيُوتَكُمْ قَبْلَةً - اپنے مکانوں کو ایک
دوسرے کے سامنے کرو۔
الْقَبْلَةُ - بوسہ، ضمانت۔ ذمہ داری۔
الْقَبْلَةُ - جر۔ قَبْلُ - الْقَبْلَةُ وَالْقَبْلَةُ
ایک قسم کا جادو گرنی کا مہرہ جس کو وہ
استعمال کرتی ہے اور اس پر منتر پڑھتی
ہے۔
الْقَبَالُ - مِنَ النَّعْلِ - جوتے کا قسم۔ محاورہ
ہے۔ رَجُلٌ مُنْقَطِعُ الْقَبَالِ - بد
رائے شخص۔
الْقَبَالَةُ - دستاویز۔ وثیقہ۔ ضمانت۔ کہا
جاتا ہے۔ حَكَمَ قَبَالَتَهُ - اس کے

سامنے بیٹھا۔
الْقَبُولُ - عافیت اور نعمت کا اظہار اچھی
بیٹھت، باد صبا۔ قابلہ (مذوالف)
الْقَبِيلُ - ضامن، کفیل، خاوند تین یا زائد
کا گروہ۔ جر۔ قَبْلُ دَقْبَلَاءُ -
الْقَبِيلُ - خدایا اطاعت اور دیکھو خدا کی
معصیت۔ مِنَ النِّسَاءِ - دایہ۔ قابلہ
بولا جاتا ہے۔ مَا يَعْرِفُ قَبِيلًا مِنْ
دَبَائِرٍ - وہ آنے والوں اور جانے والوں
میں امتیاز نہیں کرتا۔ نیز محاورہ ہے کہ
مِنْ قَبِيلِ ذَالِكَ - اس کی طرف سے
نیز رَأَيْتُهُ قَبِيلًا - میں نے اس کو
کھلم کھلا دیکھا۔
الْقَبِيلَةُ - ایک باپ کی اولاد۔ پتھر کی
چٹان کوئیں کے منہ پر۔ کھال کا ہر ٹکڑا۔
جر۔ قَبَائِلُ - قَبَائِلُ الرَّائِسِ - سر کی
بڑیاں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔
قَبَائِلُ الطَّيْرِ - پرندوں کی اقسام۔
قَبَائِلُ الشَّجَرِ - درخت کی شاخیں۔
قَبَائِلُ الثَّوْبِ - کپڑے کے ٹکڑے۔
الْإِسْتِقْبَالُ - مِنَ الزَّمَانِ - زمانہ آئندہ
مستقبل۔
الْأَقْبِلُ - جھینکا آدمی۔ رَجُلٌ أَقْبِلُ - وہ
آدمی جو ناک کی طرف دیکھتا ہو معلوم ہو
مؤنث قَبْلَاءُ - جر۔ قَبْلُ -
الْقَابِلُ - موجودہ سال سے اگلا آئندہ
سال۔ قبول اور تاثر کی استعداد رکھنے
والا۔ جر۔ قَبْلَةُ -
الْقَابِلِيَّةُ - وہ کیفیت جس سے قبول یا تاثر
کی آمادگی ہو۔
الْقَابِلَةُ - قابل کی مؤنث۔ آئندہ شب۔
مذوالف۔ جر۔ قَوَائِلُ وَقَائِلَاتُ -
قَوَائِلُ الْأَمْرِ - معاملہ کے مبادی۔
الْمُقَابِلُ الرَّجُلُ الْمُقَابِلُ - نجیب الطرفین
شریف النسل۔ محاورہ ہے کہ رَجُلٌ

مُقَابِلٌ مُدَّابِرٌ - شریف النسل۔
الْمُقَبَّلُ - مقبول۔ مِنَ الثِّيَابِ - پیوند لگا
ہوا کپڑا۔ رَجُلٌ مُقَبَّلُ الثِّيَابِ -
وہ شخص جس میں کبرستی کے آثار ظاہر
نہ ہوں۔
الْمُسْتَقْبِلُ الْمُسْتَقْبِلُ الْمُسْتَقْبِلُ -
مِنَ الزَّمَانِ - زمانہ آئندہ۔ مستقبل۔
قَبْنٌ رَضٍ قَبُونًا - الرَّجُلُ - زمین پر چلنا
پھرنا۔ دور دراز زمین پر جانا۔
قَبْنٌ - الشَّيْءُ - کسی چیز کو کھٹے سے تولنا۔
أَقْبَنَ - دشمن سے مار جانا۔ امن کے ساتھ
تیز دوڑنا۔
الْقَبْنَةُ - حاجتوں میں دوڑ دھوپ۔
الْقَبَانُ - بھاری اشیاء تولنے کی ترازو کا نطا
القَبِيْنُ - ضروریات میں مستعد اور جدوجہد
کرنے والا۔ تیز رفتار۔
قَبَا يَقْبُو قَبْوَانِ - اَلْبَنَاءُ - عمارت کو
اٹھانا یا قبہ کی شکل پر بنانا۔ الزَّعْفَرَانُ -
زعفران چھینا یا جمع کرنا۔ الشَّيْءُ - انگلیوں
سے جمع کرنا۔ قَبَا الشَّيْءُ - کمان جیسا بنانا۔
- الْحَرْفُ - حرف کو ملانا۔
قَبْنِي تَقْبِيَّةٌ - الْمَتَاعُ - سامان تیار کرنا۔
- الثَّوْبُ - کپڑے کو شیروانی کے لیے
قطع کرنا۔ عَلَى فَلَانٍ - کسی پر زیادتی
کرنا۔ حتیٰ پر تجاوز کرنا۔
تَقْبِي - الشَّيْءُ - کسی چیز کا قبہ کی طرح ہو
جانا۔ الْقَبَاءُ - شیروانی پہننا۔ الرَّجُلُ
کسی کے پیچھے سے آنا۔
الْأَقْبَلُ عَنْهُ - کسی سے مخفی ہونا۔
لِقَبْنِي - الْمَتَاعُ - سامان کو مہیا کرنا۔
الْقَبْوُ - وہ عمارت جس کے اجزاء باہم خوب
پیوست ہوں۔
الْقَبْوَةُ - اسم مرقہ قبا کا۔ دونوں لبوں کو
ملانا۔
الْقَبَاءُ - قبا، شیروانی۔ کپڑوں کے اوپر پہننے



کا ایک لباس۔ جر۔ اَقْبِيَّةٌ
الْقَبَاءُ کسی چیز کی مقدار۔ محاورہ ہے۔
بَيْنَهُمَا قَبَاءٌ قَوْسَيْنِ وَقَابٌ
قَوْسَيْنِ۔ ان کے درمیان دو کمانوں
کے برابر فاصلہ ہے۔ مراد قریب
ہونا ہے۔

الْمَقْبُورُ ملا ہوا۔ جڑا ہوا۔

الْمَقْبِيُّ بہت چربی والا۔

الْقَبِيُّ مقدار۔

قَبَابَةٌ وہ صحرا جس میں پانی نہ ہو۔

قَتَّتْ رَنَ اقْتَتَا جھوٹ بولنا۔ انبوب،

کپڑا کاٹنا۔ انشی۔ تھوڑی تھوڑی جمع

کرنا۔ کم کرنا۔ تیار کرنا۔ قَتَّ إِلَى فَلَانٍ

يَا قَتَّ اشْرَ طَلَاہِ کسی کا ارادہ معلوم

کرنے کے لیے غیبی طور پر بچھا کرنا۔ قَتَّتْ

وَقَتَّتْ۔ الاحادیث، فساد اور

جھوٹ کے طور پر باتیں پہنچانا۔ قَتَّتْ

الْاَفَادِيَّةَ مختلف اشیاء کو ہانڈی

میں ڈالنا اور پکانا۔ بولا جاتا ہے۔

هُوَ يَقْتُ الْحَدِيثَ وہ بات کو

بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔

تَقَتَّتْ الْحَدِيثَ بات کا کھوج لگانا۔

پچھے لگ جانا۔

اِقْتَتَتْ الشَّيْءَ کسی چیز کو برباد و ختم کرنا۔

الْقَتُّ جھوٹ۔ ایک دوا۔ ایک دانہ

جس کو صحرانی لوگ کوٹنے کے بعد پکار

کھاتے ہیں۔ واحد قَتَّةٌ۔

الْقَتَاتُ ایک جڑی ہے۔ کر نجوہ۔

الْقَتَاتُ وَالْقَتُّوتُ چغل خور۔ اِمْرَاةٌ

قَتَاتَةٌ وَقَتُّوتٌ چغل خور عورت۔

الْقَتِّيَّتِي چغلی۔ رَجُلٌ قَتِّيَّتِي چغل خور

آدمی۔ قَوْلٌ مَقْتُوْتٌ وَمَقْتَتٌ۔

جھوٹی بات۔

قَتَّبَ رَنَ قَتَّبَا بھنی آنتیں کھلانا۔

اَقْتَبَ البعير۔ اونٹ پر پالان کسنا۔

اَقْتَبَهُ يَمِيْنًا۔ سخت قسم دینا۔ كُ
الدَّيْنِ کسی پر فرض کا بوجھ پڑنا۔
الْقَتْبُ آنتیں۔ مذکر ہے لیکن کبھی مؤنث
بھی ہوتا ہے۔ وہ چیز جو پیٹ کے آس
پاس متصل ہو۔ کجاوہ۔ جر۔ اَقْتَابُ۔
الْقَتْبَةُ آنتیں۔

الْقَتْبُ کجاوہ۔ آنتیں۔ جر۔ اَقْتَابُ۔

محاورہ ہے کہ هُوَ قَتْبٌ يَعْصُ

بِالْعَارِبِ۔ وہ بہت اصرار کرنے

والا ہے۔

الْقَتْبُ جلدی غصہ ہونے والا۔ تند خو۔

الْقَتْوَةُ وہ اونٹ جس پر پالان رکھا جاتا

ہے۔ رَجُلٌ مَقْتَبٌ الْكَاهِلِ جھکے

ہوئے کندھوں والا۔

قَتَدَ الْقَتَادَ قتاد کو کاٹنا۔ کانٹے دور

کرنا اور اونٹ کو کھلانا۔

قَتَدَ الْقَتَادَ قتاد کے اطراف کو آگ

سے جلادینا۔

الْقَتَادُ ایک سخت درخت ہے جس کے

کانٹے سوئی کی طرح ہوتے ہیں۔ بولا جاتا

ہے کہ مِنْ دُونِهِ خَرُطَ الْقَتَادُ۔

یہ کام بڑی مشقت سے ہی ہو سکتا

ہے اور اس کو کرنے کے مقابلہ میں ہاتھ

سے قتاد کے کانٹے اور چھلکا دور کرنا

زیادہ آسان ہے۔

الْقَتْدُ وَالْقَتْدُ کجاوہ کی لکڑی۔ جر۔ اَقْتَادُ۔

اَقْتَدَ وَقَتُوْدٌ۔

قَتَرَنَ ضِ قَتَرَا وَقَتُوْرَا۔ عَلِي عِيَالِه

اہل و عیال پر خرچ کرنے میں تنگی کرنا۔

فاعل قَاتِرٌ وَقَتُوْرٌ وَاَقْتَرُوْا فَكْتَرُ

الشَّيْءِ بعض کو بعض سے ملانا۔

الدَّرَجُ زرہ کی میخوں کے سر بنانا۔

الامر کسی کام کو لازم پکڑنا۔ قَتَرُ

قَتَرَا وَقَتَرُوْا وَقَتُوْرَا۔ مَا بَيْنَ

الْمَرْبِینِ اندازہ کرنا۔ تجھینہ کرنا۔

قَتَرَ الرَّجُلُ کسی پر نفقہ میں تنگی ہونا۔
قَتَرَنَ ضِ قَتَرَا وَقَتُوْرَا۔ وَقَتَرَسَ
قَتَرَا۔ الْبُخُسُ وَاللَّحْصُ۔
بدبودار ہونا۔ بُوْھیلنا۔ الْمَاسُ۔
دھواں دینا۔

قَتَرَ عَلٰی عِيَالِه۔ اہل و عیال پر خرچ میں

تنگی کرنا۔ الدَّخْلُ بُسْ جانا۔ بدبو ہو

جانا۔ الصَّيْدُ لِلْأَسَدِ شکاری کا

شیر کی کھوہ میں گوشت رکھنا تاکہ بُوْپاکر

شیر نکل آئے۔ قَتَرَ غبار پر پہنچا کرنا۔

۔ الشَّيْءُ کسی چیز کا بعض حصہ بعض

سے قریب ہونا۔ الْوَجْلُ دھواں یا

بھاپ کی بُوْھیلنا۔ الْوَحْشُ اونٹ

کے بالوں کی دھونی دینا تاکہ شکاری کی

بو محسوس کر کے نہ بھاگ جائے۔

مَا بَيْنَ الْأَصْرَيْنِ کسی معاملہ کا

اندازہ کرنا۔

اَقْتَرَ مَا لَمْ يَجِدْ عِيَالِه۔ اہل و

عیال پر نان نفقہ میں تنگی کرنا۔ الشَّيْءُ

کسی چیز کا ضروری ہونا۔ لازم ہونا۔

اللَّهُ رِزْقُهُ۔ خدا کا کسی کے رزق کو

تنگ کرنا۔ النار۔ آگ کو دھوئیں

والی کرنا۔ اَقْتَرَتِ الْمَرْأَةُ عود کی

دھونی دینا۔

تَقَتَّرَ غصہ ہونا۔ لڑائی کے لیے آمادہ ہونا۔

لِلصَّيْدِ شکاری کا ٹپ کی آڑ میں چھپ

کر شکار کرنا۔ فَلَانًا کسی کو قریب دینے

کا ارادہ کرنا۔ عَنَهُ۔ دور ہونا۔ لِلْمَرْبِ

تیار ہونا۔ لَا مَهْدَكَ۔ کسی کام کے

لیے نرمی اختیار کرنا۔

تَقَاتَرُ الْقَوْمُ ایک دوسرے کو دھوکا دینا۔

اَقْتَرَا الْمَصَارِدَ شکاری کا ٹپ کی آڑ

میں چھپنا۔

الْقَتَرُ معمولی ذریعہ معاش۔ تجھینہ۔

الْقَتَرُ نشانہ کے تیر کی نوک۔ وہ بالنس جو

ق

نشانہ پر مارا جائے۔

الْقَتْرُ غبار۔ اندازہ۔

الْقَتْرُ وَالْقَتْرُ طرف۔ جانب قطر کا دوسرا الما ہے، جہ۔ اَقْتَارُ۔

الْقَتْرُ متکبر۔

الْقَتْرَةُ اسم مرءة ہے غبار۔

الْقَتْرَةُ اسم نوع ہے قَتْر کا۔ واحد۔

أَبُو قَتْرَةَ شیطان کی کنیت ہے۔

رَبْنُ قَتْرَةَ ایک نہایت زہریلا ساپ

جس کا کاٹا ہوا نہیں بچتا۔ جہ۔ بَنَاتُ

قَتْرَةَ غیر منصور ہے۔

الْقَتْرَةُ شکاری کی ٹی۔ زرہ کا حلقہ۔ تنگ

روزی ہونا۔ آ رہا رطاق۔ قَتْرَةُ

البُسْتَانِ باغ میں پانی داخل ہونے

کی نالی۔ قَتْرَةُ الْبَابِ دروازہ۔

بندر کرنے کا مقام جس سے دروازہ بند

ہو جاتا ہے۔ جہ۔ قَتْرُ۔

الْقَتَارُ پکی ہوئی چیز کی بھاپ۔ دھونی۔

گوشت۔ بڑی جلی یا بھنی ہوئی چیز کی بو۔

چڑا ہند۔

الْقَتِيْرُ زرہ کی میخوں کے سر۔ زرہ۔ بڑھاپا

بڑھاپے کا آغاز۔

الْقَاتِرُ وَالْقَتْرُ وَالْقَتْرُ خیل جواہل و

عیال پر خرچ میں تنگی کرے۔ بولا جاتا

ہے۔ سَرَجٌ قَاتِرٌ وَمُقْتِرٌ وہ

زمین جو پیٹ پر ٹھیک بیٹھے۔ لَحْمٌ

قَاتِرٌ وہ گوشت جس میں چکنائی کی

وجہ سے بو ہو۔

الْأَقْتَرُ جس کا رنگ خاکی ہو۔

التَّقْتِيرُ صرف زندگی برقرار رکھنے کے

مطابق روزی۔ قلیل معاش۔

قَتَعَ رَنٌ قَتُوْعًا ذیل ہونا۔ قَاتَعَهُ

مُقَاتَعَةً جنگ کرنا۔ رُطْنَا۔

الْيَتَمُّ شہد کا چھتہ کم گھرے گڑھے میں

یا چٹان میں۔

الْفَتْعُ لکڑی کھانے والا سرخ کیڑا۔ واحد

قَتَعَهُ۔ بعض نے اس کے معنی دیمک

کے میں۔

الْفَتْعَةُ ذیل۔ بولا جاتا ہے کہ هُوَ

أَقْتَعُ مِنْهُ وہ فلاں سے زیادہ

ذیل ہے۔ مَوْنٌ قَتْعَاءُ ہے۔ جہ

قَتْعٌ۔

قَتَلَ رَنٌ قَتْلًا وَقَتْلًا قَتَلَ کرنا۔ مار

ڈالنا۔ فاعل قَاتِلٌ۔ جہ۔ قَاتِلُونَ و

قَتْلُهُ وَقَتْلٌ محاورہ ہے۔ کہ

قَتْلُهُ بِأَخِيْلِهِ اپنے بھائی کے انتقام

کے لیے قتل کیا۔ قَتْلُ الْخَمْرَةِ۔

شراب کو پانی کے ساتھ مخلوط کیا۔

الْجَوْعُ أَوِ الْبَرُّ بھوک یا سردی

کی تیزی کو توڑنا۔ قَتْلُهُ اللهُ۔ اللہ

کا کسی پر لعنت کرنا۔ بددعا کے لیے بولا

جاتا ہے۔ اور کبھی تعریف و تحسین کے

موقع پر بھی بولتے ہیں۔ محاورہ ہے۔

قَتَلَ الشَّيْءُ خُبْرًا یعنی کسی چیز کے

بہرہو کا علم حاصل کر لینا۔ قَتْلُ

غُلَيْبِكُ یعنی فلاں کو سیراب کیا اور

اس کی پیاس زائل ہو گئی۔

قَتَلَ الْقَوْمَ قوم کے بہت سے افراد کو قتل

کرنا۔ قَاتَلَ قَاتِلًا قَاتِلًا وَمُقَاتَلَةً

رُطْنَا۔ دشمنی کرنا۔ قَاتَلَهُ اللهُ خدا کا

کسی پر لعنت کرنا (بددعا) کبھی تحسین

کے لیے بھی بولا جاتا ہے جیسے قَاتَلَهُ

اللَّهُ مَا أَشْعَرَکَ یہاں بددعا مراد

نہیں بلکہ مدح و تحسین مراد ہے۔

أَقْتَلَهُ قَتَلَ کے لیے پیش کرنا۔

لَقَتْلٌ ٹھک کر چلنا۔ چلنے میں ادھر ادھر

ہونا۔ لِلْأَمْرِ کسی کے لیے مہلت دینا

۔ لِفُلَانٍ کسی کے سامنے تواضع و

فاکساری کرنا۔ لَقَتْلٌ وَلَقَاتِلٌ و

لَقَتْلٌ الْقَوْمَ قوم کا باہم جنگ

کرنا اور بعض کا بعض کو قتل کرنا۔

اسْتَقْتَلَ قتل کے لیے اپنے آپ کو سپرد

کرنا۔ جیسے کہ اسْتَمَاتٌ بولا جاتا ہے۔

مردانہ وار اپنے آپ کو قتل کے لیے

پیش کر دینا۔ رَفِی الْأَمْرِ اپنے کو ہلاکی

کے لیے پیش کرنا۔ کسی کام میں کوشش

کرنا۔

السَّنُّ الْحَمْدُ عَمَّا قَتَلَ جو قتل کر ارادہ

ہو۔ الْقَتْلُ الْخَطَاءُ وہ قتل جو

ارادہ نہ ہو۔

الْقَتْلُ دوست، دشمن، بہرہر نظیر۔ رُطْنِ

والا شجاع جہ۔ اَقْتَالَ۔ بولا جاتا ہے۔

إِنَّهُ لَيَقْتُلُ شَيْءٌ وہ شر کو جانتا ہے

الْيَقْتَلُ اسم نوع۔ بولا جاتا ہے۔ قَتْلُهُ

قَتْلَةً سَوْعِ اس کو بری طرح قتل کیا

الْقَتْلُ نفس۔ قوت۔ بولا جاتا ہے۔ نَاقَةُ

ذَاتُ قَتَالٍ طاقتور اونٹنی۔

الْقَتُولُ بہت قتل کرنے والا۔ مذکر و

مؤنث دونوں کے لیے ہے۔ جہ۔ قُتِلَ

وَقُتِلَ۔

الْقَتِيلُ مقتول۔ مذکر و مؤنث کے لیے۔ جہ

قَتِلَ وَقَتِلَاءٌ وَقَتَالٌ۔

الْمَقْتُلُ وہ عضو جس پر چوٹ لگنے سے

ہلاکت کی نوبت آ جائے، جیسے کنپٹی۔

قتل کا مقام۔ قتل۔ جہ۔ مَقَاتِلُ۔

المَقَاتِلَةُ جنگ کرنے والا گروہ۔ تاء

تانیث جماعت مراد ہونے کی وجہ سے

لاحق کی گئی ہے۔ واحد مَقَاتِلٌ ہے۔

المَقْتَلُ آگاہ۔ مجرب۔ تجربہ کار۔

المُقْتَلُ میدان کارزار۔

قَتَمَ رَنٌ قَتْمًا وَقَتَمَ دَسٌ قَتَمًا۔

الْقَبَارُ غبار اٹھنا گرد اڑنا۔

قَتَمَ رَضٌ قَتَمَةً وَقَتَمًا سیاہی

مائل ہونا۔ قَتَمًا دَجْهَةً متغیر ہونا۔

أَقْتَمَ الْيَوْمُ دن میں غبار کا سخت ہونا۔



اَقْتَمَ اِقْتِمَامًا - الشیءُ چیر کا سیاہ ہو جانا۔

الْقَتْمُ - غبار۔

الْقَتْمَةُ - رنگ جس میں سرخی و سیاہی ہو۔

الْقَتَامُ وَالْقَتْمَةُ - سیاہ غبار۔ لڑائی کا غبار۔

اندھیرا۔ سیاہی۔

الْقَاتِمُ - سیاہ۔ بولا جاتا ہے۔ اَسْوَدُ قَاتِمٍ

یعنی نہایت سیاہ۔ جر۔ قَوَاتِمُ۔

الْاَقْتَمُ - وہ چیز جس کا رنگ سرخ سیاہی مائل ہو۔

قَاتِنٌ وَنَ قَتُونًا - اَلْمَسْكُ - مشک کا خشک

ہو جانا اور اس کی تازگی کا نائل ہو جانا۔

قَتْنُ دَنٍ قَتَانَةٌ - اَوَقَتْنُ - کم گوشت و کم

خوراک ہونا جسم کا ضعیف و نحیف ہونا۔

الْقَتَانُ وَالْقَتَانُ - غبار۔

الْقَاتِنُ - فا۔ سیاہ مائل بہ سرخ۔ اَسْوَدُ

قَاتِنٌ - نہایت سیاہ۔

الْقَتَيْنِ - کم خوراک و کم گوشت۔ (مذکر و

مؤنث یکساں ہے) حقیر۔ دُلا پتلا۔ ذلیل

پتلا نیزہ۔ چھڑی۔ کیونکہ اس میں خون

کم ہوتا ہے۔

قَتَا يَقْتَوُا قَتْنًا وَقَتْنًا وَقَتْنًا وَمَقَتْنًا

الْمُلُوكُ - بادشاہوں کی خدمت۔

اچھی طرح نہ فاعل قَاتٍ۔

رَقَتَوَى - الرَّجُلُ کسی شخص سے خدمت

لینا (اس کی نظیر نہیں ہے کیونکہ یہ

خلاف قاعدہ ہے)

الْقَتْوَةُ - اسم مفعول ہے قَتَا سے۔ چغل خوری۔

الْمَقْتَى - مرف کھانے کے بدلہ ملازمت

کرنے والا۔ شاہی نوکر کے لیے بولا جاتا

ہے۔ جر۔ مَقْتُوُونَ وَمَقَاتِلُوهُ

وَمَقَاتِلِيهِ

الْمَقْتَوَى - مرف کھانے کے عوض خادم۔

قَتْنٌ (نَ) قَتْنًا - الشیءُ - چیز کو کھینچنا۔

الْاِبِلُ - اونٹ کو سیراب کرنا۔ اِقْتَنَتِ

الشَّجَرَ - درخت کو کھاڑنا۔

قَتْنٌ (نَ) قَتْنًا وَفَيْتَنِي - اَلْمَالُ - بہت

مال جمع کرنا۔

الْقَتَاثُ - اسباب۔ بولا جاتا ہے۔ جَاءَ

الْقَوْمُ بِقَتَاثِهِمْ وَقَتَاثُهُمْ - یعنی

قوم اپنا کل اسباب لے کر آگئی اور

پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔

الْقَتَاثُ - چغل خور۔

الْقَتَاثَةُ وَالْقَتِيثَةُ وَالْمَقْتَنَةُ -

لوگوں کی جماعت۔

اَقْتَا - اَلْمَكَانُ - کسی جگہ کھیر زیادہ ہونا۔

الْقَوْمُ - کسی قوم کے پاس کھیرے

زیادہ ہونا۔

الْقَتَاؤُ الْقَتَاؤُ - کھیر۔ لکڑی۔

الْمَقْتَنَةُ وَالْمَقْتَوَةُ - کھیرے پیدا ہونے

کی جگہ۔ جر۔ مَقَاتِنُ - اَرْضٌ مَقْتَنَةٌ

وَمَقْتَوَةٌ - کھیرے کی زمین۔

اِقْتَنَرَ - الشیءُ - کسی چیز کو گھرا اسباب

بنانا۔

تَفَقَّرَ الرَّجُلُ - تردد کرنا۔ گھبرانا۔

الْقَتْرَةُ - گھرا اسباب۔

فَقْتَقَتْ قَتَقْتَةً - اَلْوَتْدُ - میخ کو کھانے

کے لیے بلانا۔ اَلْمَكْيَالُ - پیمانہ کو

پورا کرنا۔

قَتَمَ (نَ) قَتْمًا - الشیءُ - کسی چیز کو شیر

کے پاخانہ سے لتھیرنا۔ وَاقْتَمَ

اَلْمَالُ - مال زیادہ جمع کرنا۔ اِقْتَمَ

الرَّجُلُ - کسی کو ذلیل کرنا۔ الشیءُ -

کسی چیز کو جیسے کھاڑ دینا۔

قَتَمَ (نَ) قَتْمًا - لَهُ مِنَ الْمَالِ - مال

دفعہ دینا۔ فِی مَشْيِهِ - چلنے میں

تاخیر کرنا۔ آہستہ چلنا۔

قَتَمَ (نَ) قَتْمًا وَفَقْمًا - شیر کے پاخانہ

میں لتھڑ جانا۔

قَتَمَ (نَ) قَتْمًا وَقَتَامَةً - غبار آلود

ہونا۔ الْقَتْمُ وَالْقَتْمُ - خیر یا شر

کا جامع۔ الْقَتْمُ - بہت عطا کرنے

والا۔ رِقَاتِمُ سے معدول ہے

الْقَاتِمُ - فا۔ معطی۔

الْقَتْمُ - سنی لوگ۔

الْقَتْمَةُ - خاکی رنگ۔

قَتَامُ - (سببی برکسر) مادہ بخور۔

قَتَا يَقْتَوُا قَتْنًا وَقَتْنًا يَفْتِي قَتْنًا و

اِقْتَنَى - اَلْمَالُ - مال جمع کرنا۔

الْقَتْنَا - ان اشیاء کا کھانا جو ڈالنے کے نیچے

چباتے وقت آواز دیں۔ جیسے لکڑی

وغیرہ۔

قَتَمَ (نَ) قَتْمًا وَفَقْمًا - خالص ہونا۔

الْقَتْمُ - جر۔ اَقْتَحَا - الْقَحَا - ہر چیز

خالص۔ محاورہ ہے۔ فَلَانٌ كَرِيحٌ

قُحٌّ يَارَ اَعْرَابِيٍّ قُحٌّ - یعنی خالص کریم

یا خالص اعرابی ہے۔ الْقَحُّ - گنوار۔

غیر منہب۔ مؤنث قُحَّةٌ - بولا جاتا ہے

اَعْرَابِيَّةٌ قُحَّةٌ

قَحَبٌ (نَ) قَحَبًا وَفَحَابًا وَقَحَبٌ -

کھانسی۔ قَحَبَتِ الْمَرْأَةُ - بدکار ہونا

قَا حَبَتُ وَتَقَحَّبَتِ الْمَرْأَةُ - عورت کا

زانیہ یا بدکار ہونا۔

الْقَحْبُ - عمر رسیدہ۔ کھانسی کا مریض۔

الْقَحْبَةُ - قَحَب کی مؤنث۔ زانیہ۔ بدکار

بڑھیا عورت۔ جر۔ قَحَابٌ - سَعَالٌ

قَا حَبٌ - شدید کھانسی۔

قَحَحَ (نَ) قَحْحًا - الشیءُ - سالم چیز کو

لے لینا۔

قَحَدَ (نَ) قَحْدًا وَاقْحَدَ - اَلْبَيْعُ

اونٹ کی کوہان بڑی ہونا۔

اِسْتَقْحَدَتِ النَّاظَةُ - ناقدہ کا بڑی کوہان

والی ہونا۔ نَاقَةٌ قَحْدَةٌ وَمَقْحَدٌ -

جر۔ مَقْحِيدٌ - بڑی کوہان والی ناقدہ۔

الْقَحْدَةُ - کوہان۔ کوہان کی جسڑ۔ جر۔

قَحَادٌ وَاقْحَدٌ

اَلتَّحَادُ - تنہا آدمی۔ جس کا نہ بھائی نہ بھتیجہ نہ لڑکا۔



الْمَدَّةُ حَذَّةٌ كَوْنُهَا كِي حَذَّةٌ

قَحْزَرَفٌ قَحْزَرٌ كَوْنًا بَعْدَ جِيْنٍ هَوْنًا

كَبْرًا تَقْزُوْا مَرْدَهُ كِي طَرَحٍ بَرَّ جَانًا

رَقَحْزَرٌ أَوْ حَوْزَرٌ أَوْ قَحْزَرٌ بَلَمَ كَسَى

كُوْجَهَارَتَا قَحْزَرَةٌ قَحْزَرٌ أَوْ قَحْزَرَةٌ

بِالْقَصَا عَصَا مَارَنَا قَحْزَرٌ

قَحْزَرٌ أَوْ حَوْزَرٌ أَوْ قَحْزَرَانَا الرَّجُلُ

بَلَاكُ كَرْنَا

قَحْزَرٌ وَتَقَحْزَرُ كَلَامُ كَلَامٍ كَسَى كَسَى

بَدَلَا مِي كَرْنَا

الْقَاحِزَاتُ سَمْتِيَانِ

الْقَحَاذَةُ بَرْدُوْلُ كُوْجَرُ كَالْجَالِ

التَّقْجِيْزُ طَرَاظٌ وَهَمْزٌ شَرٌّ جَوْعٌ

مُقْجِرٌ سَمْتٌ هَمَكٌ

قَحْطَرَفٌ قَحْطَا بَرِي طَرَحٌ مَارَنَا بَسَتْ

بِيْنَانَا

قَحْطَرَفٌ قَحْطَا وَفَحْطَرَسٌ قَحْطَا

الْمَطَرُ بَارَشٌ نَهْ هَوْنًا

قَحْطَا وَفَحْطَا وَفَحْطَا وَفَحْطَا

قَحْطَا وَفَحْطَا وَفَحْطَا وَفَحْطَا

الْعَامُ كَسَى سَالٌ بَارَشٌ رَكٌ جَانَا أَوْ

قَحْطَا وَفَحْطَا وَفَحْطَا وَفَحْطَا

أَقْحَطَ اللَّهُ الْأَرْضَ كَسَى سَرَزِيْنُ كُوْ

قَحْطَا وَفَحْطَا وَفَحْطَا وَفَحْطَا

لَوْكُوْنُ كَالْقَحْطَا وَفَحْطَا وَفَحْطَا

وَأَقْحَطَ الْبَلَدُ كَسَى شَهْرِيْنِ بَارَشٌ

نَهْ هَوْنًا

قَحْطَا النُّخْلَةَ كَبْرُكَ دَرَخْتِيْنِ

تَلْقِيْعُ كَرْنَا عَامٌ قَحْطَا وَفَحْطَا

مَقْحُوْطٌ وَوَسَالٌ جِيْنِيْنِ بَارَشٌ نَهْ

هَوْنًا أَوْ قَحْطَا وَفَحْطَا وَفَحْطَا

وَسَالٌ جِيْنِيْنِ بَارَشٌ نَهْ هَوْنًا وَهَوْنًا

كَمِ هَوْنًا

الْمَقْحُوْطُ وَهَوْنًا وَهَوْنًا وَهَوْنًا

قَحْطَرَفٌ قَحْطَا كَبْرُكَ كُوْجَرُ كَالْجَالِ

تَوْرُنَا - الشَّيْءُ بَسَا كَرْنَا جَانًا - مَا

فِي الْإِنَاءِ - بَرْتَنُ كَالسَّبَبِ كَبْرُكَ أَيْ دَمٌ

فِي جَانًا - الْحَبْتُ - دَانِي كَبْرُكَ تَا كَبْرُكَ

بَهْوَسَهُ عَلِيْدَهُ بَرَبَانِي - الدُّمَانَةُ

أَتَاكَ كُوْجِيْنَا - قَحْطَا - كَهَانَا

لَقَحْطَرَفٌ - مَا فِي الْإِنَاءِ - أَيْ سَانَسٌ

فِي سَبَبِيْنِ جَانًا - السَّيْلُ كُلُّ شَيْءٍ

سِيْلَابٌ كَالْبَرِيْنِ كُوْجَرُ كَبْرُكَ جَانًا

الْقَحْطَرَفُ كَبْرُكَ كَوْنًا وَهَوْنًا وَهَوْنًا

بَلَمَ كَبْرُكَ كَالْبَرِيْنِ كُوْجَرُ كَبْرُكَ

كِي شَكْلُ كَالْبَرِيْنِ - أَلْحَافٌ وَهَوْنٌ

وَقَحْطَرَفٌ - بَلَا جَانًا كَبْرُكَ رَمَا

يَا قَحْطَرَفُ رَأْسِيْهِ - أَسْ كُوْجَرُ

مَعَالَتِيْنِ مِيْنِ بَسَا دِيَا - فَلَانُ مَا

لَهُ قَدْ وَلَا قَحْطَرَفٌ - أَسْ كَبْرُكَ

كَبْرُكَ هُوْجِيْنِ - قَحْطَرَفٌ كَبْرُكَ كَالْبَرِيْنِ

الْقَحْطَرَفُ كَبْرُكَ مِيْنَا

الْقَحْطَرَفُ - بَسَا جَانًا وَهَوْنًا سِيْلَابٌ

رَبْرُوسَتُ سِيْلَابٌ

الْقَحْطَرَفُ - دَهْ جِيْنِ بَوَا كَبْرُكَ سَانَسِيْنِ

لِي جَانًا

الْقَحْطَرَفُ - فَاجِ - قَحْطَرَفٌ - عَجَابَةٌ

قَحْطَرَفٌ - شَدِيْدٌ أَدَهِيْ

الْمَقْحُوْطَةُ - أَسْ بَهْوَسَهُ سَبَبُ كَبْرُكَ كِي

كَبْرُكَ - جِيْنِ - مَقْحُوْطٌ

قَحْطَرَفُ الصَّوْتِ - أَوَاكَ مَقِيْنِ الْكَلَامِ

الْقَحْطَرَفُ - بَسَا كَبْرُكَ

قَحْطَرَفٌ قَحْطَرَفٌ قَحْطَرَفٌ قَحْطَرَفٌ

وَقَحْطَرَفٌ قَحْطَرَفٌ قَحْطَرَفٌ قَحْطَرَفٌ

هَوْنًا فَاعِلٌ قَحْطَرَفٌ وَفَحْطَرَفٌ

قَحْطَرَفٌ

الْقَحْطَرَفُ وَفَحْطَرَفٌ - بَرَبَانِي كِي سَرَفُ كَبْرُكَ

أَوْ بَرَبَانِي بَقِيْ رَهْنًا - بَسَتْ بَرَبَانِي هَوْنًا

بَلَا جَانًا كَبْرُكَ كَبْرُكَ كَبْرُكَ كَبْرُكَ

وَقَدْ قَحْطَرَفٌ - تَحَارُكَ بَرَبَانِي كَبْرُكَ كَبْرُكَ

طَرَحٌ وَبَسَا كَبْرُكَ - حَالَا كَبْرُكَ أَسْ كِي كَبْرُكَ

بَقِيْ مَرْنِيْ كَبْرُكَ كَبْرُكَ كَبْرُكَ كَبْرُكَ

أَقْحَطَ - الشَّيْءُ - جِيْنِ كُوْجَرُ كَبْرُكَ - بَلَا

جَانًا - أَقْحَطَ الصَّوْمُ - رَوْنُهُ

أَسْ كِي سَرَفُ كَبْرُكَ أَوْ بَرَبَانِي بَقِيْ رَهْنًا

قَحْطَرَفٌ مَقْحُوْطٌ - كَبْرُكَ جِيْنِ سَرَفُ رَهْنًا

تَقَحَّلَ - الشَّيْءُ - بَرَبَانِي سَرَفُ كَبْرُكَ

خَشَكٌ هَوْنًا - تَقَحَّلَ فِي كَبْرُكَ

وَحَالَا - بَرَبَانِي لَبَسَ وَهَوْنًا

بَدَلَا هَوْنًا

الْقَحْطَرَفُ - فَاجِ - مِيْنِ الْكَلَامِ - خَشَكٌ كَبْرُكَ

الْقَحْطَرَفُ - بَرَبَانِي كِي دَهْ بَرَبَانِي جِيْنِ سَرَفُ

كِي كَبْرُكَ سَوَكَبْرُكَ جَانًا

الْقَحْطَرَفُ - خَشَكٌ

الْمَقْحُوْطُ - مِيْنِ الْكَلَامِ - خَشَكٌ كَبْرُكَ

وَالَا - بَدَلَا

قَحْطَرَفٌ قَحْطَرَفٌ قَحْطَرَفٌ قَحْطَرَفٌ

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

قَحْطَرَفٌ قَحْطَرَفٌ قَحْطَرَفٌ قَحْطَرَفٌ

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا

بَقِيْ رَهْنًا كَبْرُكَ مَقْحُوْطٌ وَهَوْنًا



چلے جانا۔

لَفَحَّمَ الْفَرَسُ النَّهْرَ۔ نہر میں داخل ہونا
- الْفَرَسُ بِرَأْسِهِ۔ سوار کو چہرہ کے
بل گردانا۔ الْأَمْرُ۔ اپنے آپ کو کسی
معاملہ میں پھنسا دینا۔

لَفَحَّمَ الْأَمْرَ۔ اپنے آپ کو مشقت کے
ساتھ کسی معاملہ میں پھنسا دینا۔ فَلَانًا
کسی کو حقیر جاننا۔ محاورہ ہے لَفَحَّمْتُهُ
عَيْنِي۔ میری آنکھ نے اس کو حقیر جاننا۔
لَفَحَّمَ الْمَنْزِلَ۔ کسی مقام پر ہجوم
کرنا۔ النَّجْمُ سِتَارُهُ کا غائب
ہونا و لَفَحَّمَ۔ بلا غور و فکر داخل
ہو جانا۔

الْفَحْمُ۔ عمر رسیدہ۔ دُ بِلَا مَوْنَتِ قَحْمَةٍ
ج۔ قَحَامٌ۔

الْقَحْمَةُ۔ مشقت کا کام۔ ہلاکت۔ اندھا
دُھند چل دینا۔ قَطُّ ج۔ قَحْمٌ۔
قَحْمُ الطَّرِيقِ۔ دشوار راستہ۔

الْقَحْمُ مِنَ الْخُصُومَاتِ۔ دو چیز
جو آدمی کو نا پسندیدہ چیز پر آمادہ کرے۔
بولو جاتا ہے۔ لِلْخُصُومَةِ قَحْمٌ۔
الْقَحْمُ مِنَ الشَّهْرِ۔ مہینہ کی تین

آخری راتیں

الْقَحَامَةُ وَالْقَحُومَةُ۔ بہت بڑھا ہوا۔

الْقَحُومُ۔ بہت عمر والا۔

الْمِقْحَامُ۔ اسم مبالغہ قاحم۔ بڑی شقتوں
میں داخل ہو جانے والا شخص۔ ج۔

مَقَاحِيْلُ۔

الْمَقَاحِمُ۔ ہلاکتیں۔ اس کا مفرد صَاحِبُ
قیاس قَحْمَةٍ ہے جیسے کہ مَلَامِحُ کا
مفرد لَمَحَةٌ۔

الْمُقْحَمُ۔ اسم مفعول۔ کمزور۔ وہ اعرابی جس
نے خشکی میں نشوونما پائی ہو۔

قَحَا يَفْحُو أَقْحُوًا۔ الدَّوَاءُ۔ دوا میں
گل بابونہ ڈالنا۔ وَارْتَحَى الْمَالَ۔

تمام مال لے لینا۔

أَفْحَتِ الْأَرْضُ۔ زمین کا گل بابونہ پیدا کرنا۔
الْمِقْحَاةُ۔ سیلجہ۔
الْقَحْوَانُ وَالْأَقْحَوَانُ۔ گل بابونہ۔ واحد
قَحْوَانَةٌ وَأَقْحَوَانَةٌ۔ ج۔ أَقْحَاجِيٌّ۔
وَأَقْحَاجٌ۔ تصغیر اُقْحِيَانٌ۔ واحد
اُقْحِيَانَةٌ۔ أَقْحَاجِيٌّ الْأَمِيرُ۔ کسی
معاملے کے مبادیات۔

قَدَّ۔ کبھی اسم ہوتا ہے بمعنی حَسِبُ۔ رکافی
ہے، جیسے قَدَّ زَيْدٌ دِرْهَمًا۔ اور
کبھی عرب ہوتا ہے جیسے قَدَّ زَيْدٌ
دِرْهَمًا۔ زید کو ایک درہم کافی ہے۔
قَدَّي دِرْهَمًا۔ بلانوں کے جیسے کہ
حَسْبِي۔

۲۔ اسم فعل بھی ہوتا ہے بمعنی كَفَّ یا
يَكْفِي۔ جیسے قَدَّي دِرْهَمًا۔ مجھے
ایک درہم کافی ہے۔

۳۔ کبھی بطور حرف مستعمل ہے اور صرف
فعل متصرف خبری مثبت پر داخل ہوتا
ہے۔ جبکہ اس پر کوئی جازم یا نا صب
داخل نہ ہو رہا ہو۔ یہ فعل کے جزو کی
طرح ہے اور فعل میں کوئی عمل نہیں کرتا
نہ ہی فعل سے جدا ہوتا ہے۔ کیونکہ قسم
بھی اس کے مضمون کو نوکد کرتی ہے۔

اس لیے گویا کہ دونوں متحد ہی ہیں۔
قَدَّ مضارع کے ساتھ توقع اور امید
کے معنی پیدا کرتا ہے۔ جیسے قَدَّ يَقْدَمُ

الْغَائِبُ الْيَوْمَ۔ توقع ہے کہ آج
غائب آجائے کبھی تقبیل کا فائدہ دیتا
ہے۔ جیسے قَدَّ يَصْدُقُ الْكَذُّوبُ
کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے۔

ماضی پر داخل ہوتا ہے تو کبھی تحقیق کے
معنی دیتا ہے جیسے قَدَّ أَفْلَحَ مَنِ
الْتَقَى اللَّهَ۔ یقیناً فلاح پائی متقی نے۔
کبھی ماضی کو حال کے قریب کرنے کے

لیے آتا ہے۔ جیسے قَدَّ قَامَ فَلَانٌ۔ فلاں
آدمی ابھی ابھی کھڑا ہوا ہے۔ کبھی مضارع
میں زیادتی کے معنی بھی پیدا کرتا ہے۔ جیسے
قَدَّ أَشْهَدُ الْغَارَةَ الشُّعْرَاءَ تَحْمِلُنِي
میں بڑی لوٹ کے اندر بہت شریک
ہوتا ہوں جو مجھے برا لگینے کرتی ہیں۔

قَدَّارٌ، قَدَّارٌ وَقَدَّارٌ۔ الشَّيْءُ۔ جڑے
کاٹ ڈالنا۔ لمبائی میں کاٹنا یا چیرنا۔

بولو جانا ہے۔ قَدَّارَتُ الشَّيْءِ لِمَنْ يَنْصِفُهُ
اور کبھی دوسرے مفعول پر رب بھی
زیادہ کر کے کہتے ہیں۔ قَدَّارَتُهُ يَنْصِفُهُ
کسی چیز کو نصفانصاف کرنا۔ قَدَّارُ
الْمَسَافِرِ الْفَلَاةِ۔ مسافر کا بیابان کو
قطع کرنا۔ قَدَّارُ اللَّحْمِ۔ گوشت کے
پارچے بنا کر خشک کرنا۔

قَدَّ۔ پیٹ کا درد لاحق ہونا۔
تَقَدَّدَ۔ پھٹنا۔ چرنا۔ الْقَوْمُ قوم کا منتشر
ہونا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا خشک ہونا۔

الْثَوْبُ۔ کپڑے کا پھٹنا اور بوسیدہ
ہونا۔ الْقَوْمُ۔ قوم کا مختلف آراء اور
خیالات میں بٹ جانا۔ الثوبُ عَلَى
بَدَنِهِ۔ کپڑے کا کسی کے بدن کے طول و
اندازہ کے برابر ہونا۔

الْقَدَّ۔ پھٹنا۔ چرنا۔

رَقَّتْ الشَّيْءُ۔ بمعنی قَدَّ الشَّيْءُ۔ پھٹنا۔
الْأُمُورُ۔ معاملات کی تدبیر کرنا اور
ان میں تیز کرنا

الْمُسْتَقْدَّ۔ الْأَمْرُ۔ معاملہ کا برابر ہونا۔
جاری رہنا۔

الْقَدَّ۔ کسی چیز کی مقدار اور اس کی پیمائش
محاورہ ہے۔ هَذَا عَلَى قَدِّ ذَاكَ۔ یہ

اس کے برابر ہے۔ آدمی کا قد۔ سائز۔
کوڑا۔ بزغالہ کی کھال۔ ج۔ أَقْدَدُ وَقْدُودٌ
وَقْدَادٌ وَأَقْدَقُ۔

الْقَدُّ۔ کھال کا بنا ہوا برتن۔ تسمیر کی طرح



لمبی کٹی ہوئی کھال۔ کٹی ہوئی چیز۔ محاورہ میں بولا جاتا ہے: "مَا لَهُ قَدْ وَلَا قِصْفٌ" نہ اس کے پاس چمڑے کا برتن ہے نہ کڑی کا یعنی مفلوک الحال ہے۔ جر۔ اَقْدُ۔

الْقُدُّ۔ ایک سمندری مچھلی جس کی ایک نوع سے مچھلی کا تیل نکالا جاتا ہے۔ الْقِدَّةُ۔ چمڑے کا لمبا قسم۔ کسی چیز کا ٹکڑا مختلف الرائے لوگوں کی جماعت۔ جر۔ قَدَدٌ وَأَقْدَةٌ۔ بولا جائے گا: كُنَّا طَوَائِفَ قَدَدٍ۔ ہم مختلف الرائے گردو مچھے۔

الْقَدَادُ۔ جنگلی چوہا۔ سیمہ۔ قنفذ۔ الْقَدَادُ۔ پیٹ کا درد۔ الْقَدِيدُ۔ خشک گوشت کے ٹکڑے۔ پُرانا کپڑا۔ الْقَدِيدُ۔ ٹاٹ کا ٹکڑا۔ الْقَدِيدُ يُونُ۔ شکر کے تابع کا دیگر لوگ جیسے نائی وغیرہ۔

الْمَقْدُ۔ راستہ۔ ہوا۔ جگہ۔ الِمْقَدُ وَالِمْقَدَةُ وَالْمَقْدُ۔ چھری۔ قَدَحٌ رَفٌ، قَدْحًا۔ فی عرضہ۔ کسی با آبرو پر عیب لگانا۔ نقص نکالنا۔ بولا جاتا ہے قَدَحَ فِي سَائِقِ أَخِيهِ۔ اپنے بھائی کے ساتھ جل سازی کی۔

قَدَحَ الشَّيْءُ فِي صَدْرِي۔ فلاں چیز جو میرے قلب پر اثر انداز ہوئی۔ قَدَحَ خِتَامَ الْخَابِيَةِ۔ بڑے مٹکے کی ٹہر کو توڑنا۔ الدُّودُ فِي الْأُنْسَانِ او الشَّجَرِ۔ درخت یا دانت میں کیڑا لگ جانا۔ قَدَحَتِ الْعَيْنُ۔ آنکھ کا اندر دھنس جانا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو چٹو میں لینا۔ الْكَبِيبُ الْعَيْنُ۔ طبیب کا آنکھ کے ہدر اُترا ہوا پانی نکالنا۔ فِي الْقَدَحِ۔ تیر کے پھل کی جڑ میں

سوراخ کرنا۔ قَدَحَ وَاقْتَدَحَ۔ بالزائد جہنم سے آگ نکالنے کا ارادہ کرنا۔ عسب کا محاورہ ہے اَضْطَى لِي اَقْدَحُ لَكَ تو میرا ہوجا، میں تیرا ہوجاؤں گا۔ قَدَحَ وَاقْتَدَحَ۔ المَرْقِ۔ شوربے کو چٹو سے پینا۔ الْقِدَارُ۔ ہانڈی کی چیز کو چٹو سے پینا۔ اِقْتَدَحَ الْمَرْقَ۔ کسی کام کی تدبیر کرنا۔

قَدَحَ۔ الفرس۔ گھوڑے کو دُبلانا۔ قَدَحَتِ الْعَيْنُ۔ آنکھ کا اندر گرنا۔ قَادَحُهُ وَتَقَادَحَا۔ باہم طعنہ زنی کرنا۔ باہم مناظرہ کرنا۔

اِسْتَقْدَحَ زَنَادَةً جَهَنَّمَ سے آگ نکالنا۔ الْقَدْحُ۔ کپڑا جو دانت یا کڑی میں لگ جائے۔

الْقَدْحُ۔ نوک اور پر کے بغیر تیر۔ جوئے کا تیز۔ قَدَحٌ وَأَقْدَحٌ وَاَقْدَحُ قَدْحًا وَقَدْحَانِ۔ جھج۔ اَقْدَحِيْ محاورہ ہے۔ صَدَقْتُهُمْ وَسَكَدَ قَدْحُهُ۔ ان سے ٹھیک ٹھیک کہا۔ الْقَدْحُ۔ گلاس چھوٹا ہو یا بڑا۔ قَدْحُ خَالِي گلاس کو اور کاس بھرے ہوئے کو کہتے ہیں۔ بولا جاتا ہے لَا تَجْعَلُونِي كَقَدْحِ السَّارِكِ۔ مجھے آخر میں نہ رکھو۔ کیونکہ سوار تمام اسباب میں سے گلاس یا پیالہ کو آخر میں رکھتا ہے۔

الْقَدْحُ الْفَرْدِيُّ۔ متبنی کو کہتے ہیں۔ جر۔ اَقْدَحُ۔ الْقَدْحُ۔ آگ جلانا۔ الْقَدْحَةُ۔ اسم نوع قَدَحَ کا۔ الْقَدْحَةُ۔ مِنَ الْمَرْقِ۔ شوربے کا ایک چٹو۔

الْقَدْحَةُ۔ گلاس بنانے کا پیشہ۔ الْقَادِحُ۔ فا۔ وہ سیاہی یا کپڑا جو درخت

یا دانت کو لگ جاتا ہے۔ کڑی میں دراڑ۔ اکثر صفت ہے۔ الْقَادِحَةُ۔ مَوْنُثٌ قَادِحٌ۔ وہ کپڑا جو دانت یا درخت میں سوراخ کر دیتا ہے۔ جر۔ قَوَادِحُ۔ بولا جاتا ہے۔ حُتَّى قَادِحَةٍ۔ نہایت شدید بخار۔ الْقَدْحُ۔ گلاس بنانے والا۔ سرسبز پودے کے اطراف، جھاڑی یا پودے کی کلیاں۔ وَالْقَدْحَةُ۔ چھماق کا پتھر۔ چھماق پر مارنے کا فولادی ٹکڑا۔ الْقَدِيحُ۔ شوربا۔ ہانڈی کے پینے میں رہی ہوئی چیز جو مشکل سے نکلے۔

الْاَقْدَحُ وَالْقَدْوُحُ۔ کبھی۔ الِمْقَدَامُ وَالِمْقَدَحُ۔ چھماق کا لوبا۔ الِمْقَدَحُ وَالِمْقَدَحَةُ۔ چچہ۔ کفگیر۔ اِقْدَحُوا قَدَحًا رَأً۔ الرجلُ۔ کسی آدمی کا گالی دینے یا مارنے کے لیے تیار ہو جانا۔

قَدَّرَ وَقَدَّرَ رَضًى، قَدَّرَا وَقَدَّرَةً وَمَقْدَرَةً وَمَقْدَرَةً مَقْدَرَةً وَمَقْدَرًا وَقَدَّرَا وَقَدَّرَةً وَقَدَّرَا وَقَدَّرَا وَقَدَّرَا وَقَدَّرَا۔ علی الشَّيْءِ۔ کسی چیز پر قوی و قادر ہونا۔

قَدَّرَ رَضًى، قَدَّرَا۔ الامرُ۔ معاملہ کی تدبیر کرنا۔ الشَّيْءُ بِالْشَّيْءِ۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے مطابق اندازہ کرنا۔ دوسری چیز کی مقدار پر کرنا۔ قَدَّرَا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو تیار کرنا۔ معین کرنا۔

قَدَّرَ رَضًى، قَدَّرَا۔ لَا مِرْكَزًا۔ کسی کام کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی تدبیر کرنا۔ قَدَّرَ رَضًى، قَدَّرَا۔ اللّٰهُ خدای تعظیم کرنا۔ وَقَدَّرَ اللّٰهُ

عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَقَدْ رَكِبَهُ الْأَمْرُ۔
 کسی چیز کا فیصلہ کرنا یا اس کا حکم عائد
 کرنا۔ قَدَّرَ الرُّزُقَ رِزْقُہ کی تقسیم
 کرنا۔ قَدَّرَ وَقَدَّرَ عَلَى عِيَالِهِ اہل و
 عیال پر تنگی کرنا۔ قَدَّرَ عَلَى الشَّيْءِ
 کسی چیز پر قادر ہونا۔ اس کو جمع کرنا اور
 روکنا۔ قَدَّرَ الرَّجُلُ اِپْنِی تَدْبِیرَ اور
 کام کی درستی میں غور کرنا۔ قَدَّرَ الشَّيْءُ
 بِالشَّيْءِ کسی چیز کو دوسری چیز پر قیاس
 کرنا۔ ایک چیز کو دوسری چیز کی مقدار
 پر کرنا۔

قَدَرُ دَسْ اَقْدَرُ۔ گروں کا چھوٹا ہونا۔ عَلٰی
الشَّيْءِ۔ کسی چیز پر قادر ہونا۔
قَدَرُ وَاَقْدَرُ اللّٰهُ فَلَنَّا عَلٰی كَذٰۤى۔ اللّٰهُ
تَعَالٰی کا کسی کو کسی چیز پر قادر کرنا۔
اَقْدَرُ الْاِنْسَانُ۔ مائٹھی میں پکانا۔
قَادَرُهُ مُقَادَرَةٌ۔ ایک دوسرے پر قادر
ہونے کی کوشش کرنا۔ ایک دوسرے پر
قیاس کرنا۔ ایک کا دوسرے کی طرح
کام کرنا۔ بَيِّنُ الشَّيْءَيْنِ۔ دو اشیاء
کے درمیان موازنہ کرنا تاکہ ایک کی مقدار
بمقابلہ دوسرے کے معلوم ہو۔ بولا جاتا
ہے۔ فَلَنْ يُقَادِرُنِيْ۔ فلاں میری
برابری کا طالب ہے۔

تَقْدَرُ - الثوبُ علیہ - کپڑے کا مقدار پر
پورا کرنا۔ لہٰذا کذا - کسی کام کے لیے
تیار ہونا۔
تَقَادَرُ - الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے کی
براہی کی طالب ہونا۔

اَلْقَدَرُ - مقدار پر پورا اترنا۔ بولا جاتا ہے
قَدَرْتُ الثَّوْبَ فَاَلْقَدَرُ۔ میں نے
کپڑے کا اندازہ کیا تو وہ ٹھیک آیا۔
اِقْتَدَرَ عَلَيْهِ۔ کسی پر قادر و غالب ہونا۔
الْبَحْلُ۔ باندی میں پکانا۔ الشَّيْءُ
بِالشَّيْءِ۔ ایک چیز کو دوسری پر قیاس

کرنا۔
اِسْتَقْدَارُ اللّٰهِ خَيْرٌ۔ اللّٰہ تعالیٰ سے
خیر کا حصہ چاہنا۔

الْقَدْرُ۔ کسی چیز کا انتہائی حصہ۔ ایک چیز کا دوسری چیز کے بلا کمی بیشی کے مساوی ہونا۔ بولا جاتا ہے۔ هَذَا قَدْرُ ذَاكَ یہ اس کے مشابہ و مساوی ہے۔ طاقت و قدرت۔ عزت و وقار۔ مالداری۔ مؤثر ہے کا اوپر والا حصہ۔ ج۔ اَقْدَارٌ۔ كَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ رمضان کے عشرہ اخیرہ کی کوئی سی طاق رات۔

الْقِدْرُ. ہانڈی (موت ہے) ج. قُدْرُ۔
نصیر قَدِيرَةٌ وَقَدِيرٌ۔

القدر کسی چیز کا انتہائی حصہ۔ طاقت و قوت۔ خلا کا اندازہ اور حکم اشیاء پر مشیت خداوندی۔ اشیاء کے ساتھ اوقات مقررہ ہیں۔ ج۔ اَقْدَر۔

القَادِرُ۔ فاما ہانڈی میں پکانے والا۔ جو ہانڈی میں پکا ہو۔ مَوْتِ قَادِرَةٍ۔ محاورہ ہے کہ کَبِينَا كَيْدَةَ قَادِرَةٍ۔ ہمارے مابین آسان اور بلا مشقت والی رات ہے۔

الْقَدَرِیَّةُ: وہ فرقہ جو تقدیر کا منکر ہے۔
 اور ہر شخص کے مختار ہونے کا قائل
 ہے۔ فرقہ جبریہ کے اعتقادات اس
 کے بالکل برعکس ہیں۔

الْقُدْرَةُ: کسی چیز پر قدرت و اختیار۔
کسی چیز کے کرنے یا چھوڑنے کا اختیار۔
الْقُدْرَةُ: چھوٹی شیشی۔

الْقَدَّارُ وَالْقِدَّارُ - قدرت۔
الْقَدَّارُ - متوسط القامت شخص۔ پھرتیلار کا
ہانڈی میں پکانے والا۔ بڑا اثر دہا۔

الْقَدَّارُ۔ وہ پتھر جو پانی کے گرنے کی جگہ
نصب کیا جائے۔ الْقَدَّارَةُ و
الْقُدُورَةُ۔ اقتدار کے مصدر ہیں۔

قوت۔ بالداری۔ خوشحالی۔
 التَّقْدِيرُ۔ نچوین کے نزدیک کسی کلمہ کا
 لفظوں سے حذف کر دینا۔ مگر نیت میں
 مراد ہونا۔ متکلمین کے نزدیک اث یا ذ کو
 پیدا کرنے سے پہلے ان کی تحدید کرنا۔
 اندازه ایزدی۔ ج۔ تَقْدِيرُ۔
 القَدِيرُ۔ قدرت والا۔ خدا تعالیٰ کے
 اسماء میں سے ایک اسم۔ وہ گوشت ہو
 ہانڈی میں پکا ہو۔
 الاَقْدَرُ۔ افعّل التفضیل۔ اھلنا آدمی
 چھوٹی گردن کا آدمی۔

الْقُدْرَاءُ. اقدر کی مؤنث۔ متوسط کان۔
بَنُو قُدْرَاءَ۔ مالدار لوگ۔

المَقْدَارُ۔ قدرت۔ ہر چیز کی انتہا۔ وہ چیز جس کے ذریعہ کسی چیز کا وزن یا اس کی تعداد ظاہر ہو۔ ج۔ مَقَادِيرُ۔

المُتَّقِدُ - فا۔ ہانڈی میں پکانے والا۔
شریک کار۔ ہر چیز کا وسط۔ بولا جاتا ہے
رَجُلٌ مُتَّقِدٌ۔ درمیانہ قد آدمی۔

المَقَادَرَةُ: تنگ مکان۔
 المَقْدُورُ: طے شدہ معاملہ۔ محاورہ میں
 بولا جاتا ہے۔ اَمْرٌ مَقْدُورٌ عَلَیْکُمْ۔
 وہ معاملہ جس کے کرنے پر انسان قادر
 ہے۔

المَقْدَرَةُ وَالْمَقْدَرَةُ وَالْمَقْدَرَةُ -
قدرت - المَدَارِي - المَقْدَرَةُ - تقدير
حكم خداوندی -

قُدُسَ رَک، قُدُسًا وَقُدُسًا۔ پاک ہونا
با برکت ہونا۔

قَدْ سَأَلَ اللَّهُ فُلَانًا - خدا کا کسی کو پاکیزہ کرنا۔
برکت دینا۔ الرَّجُلُ اللَّهُ - خدا کا پاکیزگی
بیان کرنا۔ خدا کے مقدس ہونے کا اقرار
کرنا۔ الْكَاهِنُ عِنْدَ النَّصَارَى -
عیسائیوں کا نذرانہ ربانی قائم کرنا۔
الرَّجُلُ - بیت المقدس میں آنا۔ قَدْ سَأَلَ

اللہ۔ خدا کی پاکی بیان کرنا۔ اور اسی معنی میں ہے۔ **لُسْتَبْرَ لَكَ**۔ تم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔
تَقْدَسُ۔ پاک ہونا۔
قَدَّاسَةُ۔ پاکی۔
الْقُدُّوسُ وَالْقُدُّوسُ۔ مصدر ہیں۔
الْقُدُّوسُ اور **شَلِيم**۔ بیت المقدس۔
قُدُّوسُ الْأَقْدَاسِ عِنْدَ الْيَهُودِ۔
 مقام ہیکل جہاں بڑا عالم دین یہودی سال میں ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے۔
رُوحُ الْقُدُّوسِ وَالرُّوحُ الْقُدُّوسُ۔
عِنْدَ النَّصَارَى۔ اصول ثلاثہ میں سے تیسری اصل۔ **رُوحُ الْقُدُّوسِ** عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ۔ جبریلؑ۔
خَطِيبَةُ الْقُدُّوسِ۔ جنت۔
الْقُدُّوسِ۔ وہ پتھر جو کنوئیں کے کم یا زیادہ پانی کو معلوم کرنے کے لیے پھینکا جائے۔
الْقُدُّوسُ وَالْقُدُّوسُ۔ چھوٹا پیالہ۔
الْقَادِسُ۔ بڑی کشتی۔ وہ پتھر جو پانی میں ڈالا جائے تاکہ اونٹ سیراب ہو جائے۔
جہ۔ قَوَادِسُ۔ بیت الحرام۔ اُنْدَسُ کا ایک جزیرہ۔
الْقَادُوسُ۔ وہ ظرف جس میں پینے کے وقت دانے ڈالے جائیں۔ عام لوگ اس کو کوٹھڑی کہتے ہیں۔ وہ برتن جس کے ذریعے نالی سے پانی نکالا جائے۔
جہ۔ قَوَادِيسُ۔
الْقُدَّاسُ۔ وہ پتھر جو اونٹ کے حوض میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اونٹوں کے درمیان تقسیم کا اندازہ ہو جائے۔ وہ چیز جو چاندی سے موتی کی طرح بنائی جاتی ہے۔ بڑی بزرگ۔
الْقَدَّاسُ۔ موتی۔
الْقَدُّوسُ۔ سخت اقدام کرنے والا۔

الْقُدَّاسُ عِنْدَ النَّصَارَى۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو روٹی اور شراب کی نذر و نیاز پیش کرنا۔ **جہ**۔ قَدَّاسِيسُ۔
الْقَدُّوسُ وَالْقُدُّوسُ۔ ہر نقص و عیب سے پاک۔ خدا نے تعالیٰ کا نام ہے۔
الْقَدَّاسِيسُ۔ خدا کے نزدیک برگزیدہ وہ مومن جو پاک و فاضل ہو کر مرا ہو۔
 (عیسائیوں کے نزدیک، مونث **قَدَّاسِيَّةٌ**۔)
الْمَقْدِسُ۔ مقدس جگہ۔ **بَيْتُ الْمَقْدِسِ** و **الْبَيْتُ الْمَقْدِسُ**۔ بیت المقدس جو فلسطین میں واقع ہے۔ نسبت کے لیے **مَقْدِسِيٌّ** و **مُقَدَّسِيٌّ**۔ بولتے ہیں۔ **أَرْضُ مُقَدَّسَةٍ**۔ مبارک زمین۔
أَرْضُ الْمُقَدَّسَةِ۔ سرزمین فلسطین۔
الْمَقْدِسُ۔ عالم یہود۔ رابب۔
قَدَحٌ دَفْقَدَا۔ **قَدَحَا**۔ الفرس۔ گھوڑے کا دوڑنا۔ **الْفَرَسُ** کسی کام کو جاری کرنا۔ **فَرَسَهُ بِاللَّجَامِ**۔ لگام سے گھوڑے کو روکنا۔ **السَّيْفِيَّةُ**۔ کشتی چلانا۔ **الْخَمْسِينَ مِنْ عُمُرٍ**۔ کسی کی عمر پچاس سے متجاوز ہونا۔ **مِنْ الشَّرَابِ**۔ پینے کی چیز گھونٹ گھونٹ پینا۔ **الدُّبَابُ عَنْهُ**۔ بکذا کسی چیز سے کھینچ کر کا دفع کرنا۔ **قَدَحَةٌ** و **أَقْدَحَةٌ** عَنْ كَذَا۔ کسی کو کسی چیز سے روکنا۔ منع کرنا۔ **أَقْدَعَ الرَّجُلُ**۔ کسی آدمی کو گالی دینا۔
قَدَحَ دَسٌ۔ **قَدَحَا**۔ باز رہنا۔ **قَدَعَتْ عَيْنُهُ**۔ دیر تک دیکھنے سے نگاہ کا ضعیف ہو جانا۔ محاورہ ہے **قَدَعَتْ لِي الْخَمْسُونَ**۔ میں پچاس سال کے قریب ہو گیا۔
قَادَحَةٌ بَعِيرٌ۔ اونٹ کا خوشی و چستی سے اپنی ہمار کو کھینچنا۔ کودنا۔

تَقْدَعٌ۔ **لَهُ بِالْشَّيْءِ**۔ بدائی کے لیے تیار ہونا۔
تَقَادَعُ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کو دفع کرنا یا کھینچنا تانی کرنا۔ **بِالْيَمَاحِ**۔ ایک دوسرے کو نیزے مارنا۔
تَقَادَعُ۔ **عَلَى الشَّيْءِ** دُفِيْدَ۔ ایک دوسرے پر گرنا۔ بولا جاتا ہے۔ **تَقَادَعُ الدُّبَابُ فِي الْمَرْتَقِ**۔ کھمیاں شور بے میں ایک دوسرے پر گر پڑیں۔ **الْقَوْمُ**۔ ایک دوسرے کے پیچھے مرتے چلے جانا۔ اپنی اپنی جگہ لوٹ جانا۔
الْقَدَحُ۔ رک جانا۔ باز رہنا۔ **عَنِ الشَّيْءِ**۔ کسی سے نہرنا۔
الْقَدَحُ۔ بہت رونے والا۔ **مَاءٌ قَدَحٌ**۔ وہ پانی جو ٹکلیں ہونے کی وجہ سے پیا نہ جاسکے۔ **أَمْرًا قَدَحَةً** و **قَدُوعٌ**۔ باحیا اور کم بولنے والی عورت۔
الْقَدَحُ۔ بزدلی۔ انکساری۔ زیادہ رونے کی وجہ سے نظر کمزور ہونا۔
الْقَدَحَةُ۔ بنیان۔ انگلیا۔
الْقَدُوعُ۔ کسی چیز پر گرنے والا۔ وہ ذیل جس کو دفع کیا جائے۔
الْمُقَدَّعُ۔ پر شکن۔ سکڑا ہوا۔
مُقَدَّعَةٌ۔ کھمیں کو بھگانے کی چوڑی چھڑی۔ عصا۔
قَدَفَ رَن۔ **قَدَفَا**۔ الماء۔ پانی کو چلو سے لینا۔ پانی بہانا۔
الْقَدَافُ۔ مٹکا۔ پیالہ۔
قَدَمَ رَن۔ **قَدَمًا وَقَدُومًا**۔ القوم۔ قوم سے سابق ہونا۔
قَدَمَ رَسٍ۔ **قَدُومًا وَمَقْدَمًا وَقَدَمَانًا**۔
الْمَدِينَةُ۔ شہر میں آنا۔ **مِنْ سَفَرِهِ**۔ سفر سے لوٹنا۔ **إِلَى الْأَمْرِ**۔ کسی چیز کا ارادہ کرنا۔

قَدَمٌ وَقَدِيمٌ (ن۔ س) قَدَمًا وَقَدَمًا و
 قَدُومًا وَقَدَمٌ۔ علی قرینہ۔ اپنے
 مقابل پر جرات کرنا۔ قَدَمٌ وَقَدَمٌ
 عَلَی الْأَمْرِ۔ کسی کام پر دیری کرنا۔ عَلَی
 الْعَیْبِ۔ عیب پر راضی ہونا۔ اَقْدَمَ
 یَمِینًا۔ حلف اٹھانا۔ اَقْدَمَ فُلَانًا۔
 کسی کو آگے کرنا۔ اَقْدَمَهُ الْبَلَدُ۔
 کسی کو شہر میں آنے کی ترغیب دینا۔
 قَدَمٌ دُکَّ قَدَمًا وَقَدَامَةً۔ قدیم ہونا۔
 پرانا ہونا۔ قَدِیْمٌ وَقَدَامٌ۔ پرانا۔
 قَدَمٌ الْقَوْمِ۔ قوم سے سابق ہونا۔ قَدَمَهُ
 کسی کو آگے کرنا۔ قَدَمٌ یَمِینًا۔ حلف
 اٹھانا۔ بَیِّنٌ یَدَیْهِ۔ کسی کے آگے
 آنا۔ اَلِیْہِ بِکَذَا۔ کسی کو کوئی کام
 کرنے کا حکم دینا۔ قَدَمَهُ اِلَی
 الْحَاطِطِ۔ کسی کو دیوار کے نزدیک کرنا۔
 تَقَادَمَ۔ پرانا ہونا۔
 تَقَدَّمَ۔ آگے بڑھنا۔ پیش پیش ہونا۔
 الْقَوْمِ۔ قوم سے قدم ہونا۔ اَلِیْہِ بِکَذَا
 کسی کو کام کا حکم دینا۔ محاورہ ہے فُلَانٌ
 یَتَقَدَّمُ بَیِّنٌ یَدَیْهِ اِلَیْہِ۔ فلاں
 اپنے باپ کے حکم و نہی میں پیش قدمی
 کرتا ہے۔
 اِقْتَدَمَ۔ آگے بڑھنا۔
 اِسْتَقْدَمَ۔ بہت اقدام کرنا۔ الرَّجُلُ
 کسی کے آنے کی خواہش کرنا۔ الْقَدَمُ
 قوم سے مقدم ہونا۔
 الْقَدَمُ۔ قدیمی شرافت۔ مُرَخَّطٌ۔
 الْقَدَمُ۔ قدیم زمانہ۔ بولا جاتا ہے۔ کَانَ
 کَذَا اِقْدَمًا۔ ایسا قدیم زمانہ ہی سے
 تھا۔
 الْقَدَمُ۔ قدیم ہونا۔ کسی چیز کی سابقیت۔ بولا
 جاتا ہے۔ لَہُ قَدَمٌ فِیْ هَذَا الْأَمْرِ۔
 فلاں اس معاملہ میں اولیت رکھتا ہے۔
 الْقَدَمُ۔ پاؤں رمونٹ بھی ہے اور کبھی مذکر

بھی مستعمل ہے۔ ج۔ اَقْدَمَ وَقَدَامٌ۔
 تصغیر۔ قَدِیمَةٌ سُبَّ۔ الْقَدَمُ۔ تقدم۔
 کسی خیر یا شر میں اولیت۔ بولا جاتا ہے
 یَقْلَانِ فِیْ کَذَا اَحَدُ مَصْدَرِیْہِ اَوْ
 قَدَمٌ سُوْجَرٌ۔ فلاں کو اس معاملہ میں
 نیک اولیت ہے یا بد۔ یَقْلَانِ عِنْدَ
 فُلَانٍ قَدَمٌ۔ فلاں کا فلاں پر احسان و
 نیکی ہے۔ وَضَعَ قَدَمَهُ فِی الْعَوْلِ۔
 کسی کام کے لیے عملی قدم اٹھانا۔ جَعَلَ
 دِمَاءَہُ تَحْتَ قَدَمِیْہِ۔ ان
 کے خون کو چھوڑ دیا۔ اِجْعَلْ تَحْتَ
 قَدَمِیْکَ۔ اس کو معاف کر دے۔
 الْقَدَمُ۔ پیایش۔ پاؤں کے انگوٹھے
 سے آخری ریشمی تک کا قاصدہ۔ الْقَدَمُ
 شجاع مذکر و مونث مفرد و جمع سب
 کے لیے، بولا جاتا ہے۔ رَجُلٌ قَدَمٌ
 وَاَمْرًا قَدَمٌ وَرَجُلًا قَدَمٌ وَ
 نِسَاءً قَدَمٌ۔ بولا جاتا ہے۔ هُوَ
 ذُو قَدَمٍ۔ وہ دیر ہے۔
 الْقَدَمُ۔ بہت اقدام کرنے والا۔ پتھر پل
 زمین کا سخت حصہ۔ الْقَدَمُ وَ
 الْقَدَمُ۔ شجاع۔ الْقَدَمُ۔ آگے کو
 گزرنے والا۔ بولا جاتا ہے۔ مَضَى
 قَدَمًا۔ وہ آگے کو گزرا نہ ٹیڑھا ہوا
 اور نہ ادھر ادھر مڑا۔ مذکر و مونث
 دونوں کی صفت کے طور پر مستعمل ہے۔
 الْقَدَمَةُ۔ دیری۔ کسی معاملے میں
 سابقیت۔
 الْقَدُومِیَّةُ۔ اکر کر چلنا۔
 الْقَدُومُ۔ دیر۔ کثیر الاقدام۔ ج۔ قَدَمٌ
 الْقَدُومُ۔ کلباڑا۔ قَدُومٌ
 بتشدید دال ضعیف لغت ہے۔
 بسولہ (مونث ہے) ج۔ قَدَمٌ وَ
 قَدَامٌ۔
 التَّقْدِیمَةُ۔ قَدَمٌ کا مصدّر ہے۔ ہدیہ

ج۔ تَقَادَمَ۔
 الْقَادِمُ۔ فا۔ ج۔ قَدُومٌ وَقَدَامٌ وَ
 قَادِمُونَ۔ قَادِمُ الْإِنْسَانِ۔ آدمی
 کا سر۔ ج۔ قَوَادِمُ۔ قَادِمُ الرَّجُلِ۔
 کجاوہ کا مقدم حصہ۔ الْعَامُ الْقَادِمُ
 سال آنندہ۔
 الْقَادِمَةُ۔ قادم کی مونث ہے۔ لشکر۔
 قَوَادِمُ وَقَدَامِیُّ الْوَاحِدِ۔ قَوَادِمُ
 وَقَدَامِیُّ۔ پرندہ کے بازو کے اگلے
 بڑے پر، ان کے نیچے والے پر خوافی
 کہلاتے ہیں۔ قَادِمُ الرَّجُلِ۔ کجاوہ کا
 مقدم حصہ۔ ج۔ قَوَادِمُ۔ قَادِمَةُ
 الْعَسْکَرِ۔ لشکر کا مقدم حصہ۔
 الْقَدِیْمُ وَالْقَدَامُ۔ پرانا۔ ج۔ قَدَمَاءُ
 دَقْدَامِیُّ وَقَدَامِیُّ مُنْثٌ قَدِیْمَةٌ
 ج۔ قَدِیْمَاتٌ وَقَدَامِیُّ۔ الْقَدَامِیُّ
 لشکر کا مقدم حصہ۔
 قَدَامٌ۔ آگے رمونٹ ہے، اس کی تصغیر
 قَدِیْمَةٌ ہے۔ اور کبھی مذکر ہوتا ہے
 تو اس کی تصغیر قَدِیْمٌ آتی ہے۔
 بولا جاتا ہے قَدِیْمَةُ قَدَامٍ ذَاکَ وَ
 قَدِیْمَةُ ذَاکَ۔ میں نے اس
 سے قبل انہیں یا ذرا پہلے ملاقات کی۔
 الْقَدَامُ وَالْقَدَامُ وَالْقَدِیْمُ۔
 بلحاظ شرافت لوگوں پر مقدم ہونے والا۔
 سردار۔ بادشاہ۔ الْقَدَامُ۔ قصاب۔
 الْقَدَمَةُ۔ مِّنَ الْعُلَہِ۔ وہ بکری جو
 چرنے میں دوسری بکریوں سے آگے ہر
 پتھر پل زمین کا سخت حصہ۔
 الْقَدِیْمُ وَالْقَدِیْمُ۔ آگے، مقدم حصہ۔
 قَدِیْمُ الْجَبَلِ۔ پہاڑ کا مقدم حصہ۔
 الْأَقْدَمُ۔ اسم تفضیل ہے۔ شیر۔
 الْمَقْدَمُ۔ آنے کا وقت۔
 الْمَقْدَمُ وَالْمَقْدَمُ۔ مِّنَ الْعَبِیْنِ۔ آنکھ
 کا وہ حصہ جو ناک سے متصل ہے۔ مِّنَ

الْوَجَلُ - جہرے کا سلسلہ والا حصہ۔
 - مِنَ الرَّحْلِ - کماوہ کا اگلا حصہ۔
 جہ - مَقَادِيْمُ -
 الْمُقَدِّمَةُ وَالْمُقَدَّمَةُ - مِنَ الْجَيْشِ
 ہراول دستہ - مِنَ الْبَيْتِ - کتاب
 کا دیباچہ - الْمُقَدِّمَةُ مِمَّنْ كُلُّ شَيْءٍ
 ہر چیز کا ابتدائی حصہ - پیشانی - ماٹھا۔
 وہ چیز جس پر کوئی شے موقوف ہو - خواہ
 عقلاً خواہ نقلاً خواہ عادتاً۔
 الْمَقْدَامُ وَالْمَقْدَامَةُ - بہت اقدام کرنے
 والا - اس میں تاء مبالغہ کے لیے ہے۔
 جہ - مَقَادِيْمُ - بولا جاتا ہے - هُوَ
 يَمْسِي الْقَدَمِيَّةَ وَالْيَقْدَمِيَّةَ وَ
 التَّقْدَمِيَّةَ - وہ لڑائی کے لیے روانہ
 ہوتا ہے اور دشمن پر بہت اقدام
 کرنے والا ہے - یا بزرگی اور شرف
 میں سابق ہونے والا ہے - اس جملہ میں
 اصل اس طرح ہے صَغَى الْمَشِيَّةُ
 الْمَسْجُوتَةُ إِلَى قَوْلِ النَّاسِ لِقَدَمُ
 وَتَقْدُمُ -
 الْقَدْمُ مَوْسُ وَالْقَدَمَاسُ - پرانا - عَزَّ وَ
 حَسْبُ قَدَمُ مَوْسُ وَقَدَمَاسُ -
 قدیم عزت و ثرائف - الْقَدَمُ مَوْسُ
 وَالْقَدَمُ مَوْسُ - بڑی چٹان -
 الْقَدَمُ مَوْسُ وَالْقَدَمُ امِسُ - سخت -
 الْقَدَمُ مَوْسُ - ہراول دستہ - جہ
 قَدَامِيْسُ - جَيْشُ قَدَمُ مَوْسُ -
 بڑا لشکر۔
 الْقَدْنُ - کافی ہونا - پورا ہونا - بولا جاتا ہے۔
 قَدْنٌ زَيْدٌ وَرَهْمٌ زَيْدٌ كَوَإِيك
 درہم کافی ہے۔
 قَدَا يَقْدُو قَدْوًا - قریب آنا - سفر سے
 آنا - بہ فَرْسُهُ - گھوڑے کا سوار
 کو تیزی سے لے جانا۔
 قَدَا يَقْدُو قَدْوًى وَقَدِي يَقْدَى

قَدَى وَقَدَاةٌ وَقَدَاوَةٌ - الطَّعَامُ
 کھانے کا خوشگوار و خوشبودار ہونا۔
 صَفَتْ قَدًى وَقَدِيٌّ - شَمَمْتُ
 قَدَاةٌ الْقَدْسُ - میں نے ہانڈی کی
 خوشبو سونگھی۔
 أَقْدَى إِقْدَاءً - نیکی اور دین کے راستہ
 میں استقامت اختیار کرنا - معمر ہونا۔
 قَرِيبُ الْمَوْتِ ہونا - مِنَ السَّفَرِ -
 سفر سے آنا - الْمُسْلُكُ - مفک کی
 خوشبو کا پھیلنا۔
 تَقْدَى تَقْدِيًّا - عَلَى ذَاتِيهِ سَوَارِي كَا
 اپنے سوار کو لے کر درمیانہ راستہ اختیار
 کرنا - اِقْدَى اِقْدَاءً - بِفُلَانٍ
 فی کذا کسی کی پیروی کرنا اور اس
 جیسا کام کرنا۔
 الْقَدَا - خوشبو۔
 الْقِدْوُ - وہ جڑ جس سے شاخیں پھوٹی ہیں
 جہ - اَقْدَاءُ -
 الْقَدْوَى - استقامت۔
 الْقِدَاةُ وَالْقِدَاوَةُ وَالْقِدَاوَةُ
 وَالْقِدَايَةُ - پیشوا - مقتدا - جیسے
 لِي بَلْ قَدْوَةٌ - میرے واسطے تیرا
 عمل نمونہ ہے - بولا جاتا ہے کہ مَسَا
 أَقْدَى طَعَامُ فُلَانٍ - فلاں کے کھانے
 کی کیا اچھی خوشبو ہے۔
 قَدَى يَقْدَى قَدِيًّا - الطَّعَامُ - بمعنی
 قَدَى - بولا جاتا ہے کہ قَدَتْ قَدَايَةً
 قحط میں مبتلا قوم جنگل سے آئی۔
 قَدَايَانَا الْفَرَسُ - گھوڑے کا تیز دوڑنا۔
 قَادَى مُقَادَاةً - الرَّجُلُ - کسی کا
 مقابلہ کرنا۔
 تَقْدَى - ناز سے اکڑ کر چلنا۔
 الْقِدَاةُ - سانپ کی ایک قسم - جہ - قَدَاتُ -
 الْقِدَاةُ - پیشوا - مُقْتَدَا -
 الْقَدَى وَالْقَدَى بِمَقْدَارٍ - جیسے بَيْنَهُمَا

قَدَى رُمُحٌ - ان کے مابین ایک نیزہ
 کے برابر فاصلہ ہے - یہ لفظ گویا کہ قید
 کا مقلوب ہے - قید - اندازہ۔
 الْقَدِيَّةُ - اسم نزع ہے - طریقہ - سیرت - بولا
 جاتا ہے - خُذْ فِي هَذِيكَ وَقَدِيَّتِكَ
 اپنی سیرت و عادت پر شروع کر۔
 الْقَادِيَّةُ - وہ قوم جو جنگل میں قحط میں مبتلا
 ہو - جہ - قَوَادٍ -
 الْمُتَقَدِّي - فا - شیر۔
 قَذَرَن، قَذَا - الرِّيشُ - تیر کے پر کا
 صاف کرنا اور اس کے اطراف کو کھرچنا۔
 - الرَّجُلُ - آدمی کے کان کے پیچھے مارنا۔
 - الْحَبْرُ وَكُلُّ غُلِيظٍ - پتھر یا پتھر
 جیسی کوئی چیز پھینکنا - قَذَى الشَّعْرُ -
 بال کاٹنا اور درست کرنا - قَذَا وَقَذَا
 السَّهْمَ - تیریں پر لگانا۔
 تَقْدَاذُ - الْقَوْمُ - قوم کا متفرق ہونا۔
 الْقُدَاةُ - تیر کا پہلا آدمی یا گھوڑے کا کان۔
 جہ - قَذَا وَقَذَاذُ - پستو - مچھر - جہ۔
 قَذَاتُ -
 الْقَذَاذُ - قُدَّہ کی جمع - پستو۔
 الْقَذَاذَةُ - پریادھات کا برادہ - جہ۔
 قَذَاذَاتُ - بولا جاتا ہے - إِنَّ لِي
 قَذَاذَاتٍ وَجَدَاذَاتٍ - میرے
 پاس سونے کے اور چاندی کے ریزے
 ہیں - قَذَاذَاتُ - سونے کے ٹکڑے۔
 اور جَدَاذَاتُ - چاندی کے ٹکڑے۔
 اور محاورہ ہے - فُلَانٌ لَا يَدْعُ
 نَشَاذَةً وَلَا قَذَاذَةً - فلاں لڑائی
 میں جس سے مقابل ہوتا ہے اس کو قتل
 کر ڈالتا ہے - سَهْمُهُ أَقْدَا - اہنداد
 میں سے ہے - پردار تیر کو بھی کہتے ہیں۔
 اور پلا پکوبھی - جہ - قَذَا - ججہ۔
 قَذَاذُ - محاورہ ہے مَالَهُ أَقْدَا وَكَو
 مَرِيئُشُ - اس کے پاس کچھ نہیں۔

الْقَذَّانُ۔ بڑھاپے کے سبب سے دونوں
کپٹیوں کی سفیدی۔ پرندوں کے دونوں
بازوؤں کی سفیدی۔

الْمَقْدَرُ۔ ہر دوکان کے پیچھے کا حصہ۔ گدی۔
مرے آگے یا پیچھے کا وہ حصہ جہاں سے
سر کے بال اگنے شروع ہوتے ہیں مقدم
یا مؤخر سر میں بالوں کے کاٹنے کی جگہ۔

الْمَقْدَرُ وَالْمَقْدَرَةُ۔ پر کاٹنے کی چھری۔
الْمُقَدِّدُ وَالْمُقَدِّدَةُ۔ جس کے بال تراشے
ہوئے ہوں۔ ہر چیز کو درست کی ہوئی اور
سنواری ہوئی ہو۔ مزین۔

الْمُقَدِّدُ وَالْمُقَدِّدَةُ۔ گول کان جو
تراشے ہوئے معلوم ہوں۔

قَاذَحَهُ مَقَاذِحَهُ۔ کسی کو گالی دینا۔
تَقَذَّرَ يَفْذِرُ بِالْشَيْءِ۔ کسی کے
سامنے شراست کرنا۔

قَذَّرَ وَيَقْذِرُ قَذْرًا س، قَذَّرًا
وَقَذَارَةً۔ گندہ ہونا۔ میلا ہونا۔
صفت قَذَرٌ وَقَذِرٌ وَقَذَرٌ
قَذَرٌ۔

قَذَّرَ س، قَذَّرًا وَقَذَّرَ س، قَذَّرًا
وَقَذَّرَ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو گندہ کرنا۔
قَذَّرَ الشَّيْءُ۔ کسی چیز سے گھن کرنا۔
پرہیز کرنا۔ گندہ محسوس کرنا۔

أَقْذَرَهُ۔ گندہ پانا۔ أَقْذَرُ فُلَانًا۔ کسی کو
تنگ کرنا۔

تَقَذَّرَ۔ الشَّيْءَ دَمْنَهُ۔ کسی چیز سے گندہ
کے سبب گھن کرنا۔

اِسْتَقْذَرَ الشَّيْءَ۔ گندہ سمجھنا میل کچل کی
وجہ سے بُرا سمجھنا۔

الْقَذَرُ۔ میل۔ کبھی پاخانہ کو بھی کہتے ہیں۔ ج
أَقْذَارٌ۔ اور خلافِ قیاس مَقَاذِرُ

بھی آتی ہے۔

الْقَاذُورَةُ۔ فحش چیز جیسے زنا وغیرہ۔ ج
قَاذُورَاتٌ۔

الْقَاذُورَةُ وَالْقَاذُورُ وَالْقَاذُورُ
ذُو قَاذُورَةٍ۔ وہ شخص جو اپنی بد خلقی
کی وجہ سے لوگوں سے نہ ملے۔ وہ شخص
جو کسی چیز کو گھن کرنے کی وجہ سے نہ
لکھے۔ الْقَاذُورُ مِنَ الْبِغَاءِ۔ وہ
عورت جو مردوں سے یا عیب سے دور
ہو۔ رَجُلٌ قَاذِرٌ۔ وہ شخص جو قابل
ملامت اشیاء سے دور ہو۔ رَجُلٌ
مَقْدَرٌ۔ وہ شخص جس سے لوگ بچیں اور
پرہیز کریں۔

الْمَقَاذِرُ۔ گندگیاں۔

الْمُقَدِّرُ۔ فاحش کا مرتکب۔ ج۔

مُقَدِّرُونَ۔

الْقُذْرُوفُ۔ عیب۔ ج۔ قَذَّرَ اِرْبَعُ۔

قَذَعُ دَف، قَذَعَا۔ گالی دینا۔ فحش تہمت
لگانا۔

أَقْلَعَ فُلَانًا۔ کسی کو گالی دینا۔ فحش بہتان
لگانا۔ يَفْلَانُ۔ کسی کے بارے میں
بری بات کہنا۔ النُّوْلُ۔ بری بات
کہنا۔ الرَّجُلُ فحش چیز کا ارتکاب
کرنا۔

قَاذَعَهُ۔ کسی سے گالی گلوچ کرنا۔
قَذَعٌ۔ ثَوْبَةٌ۔ کپڑے کو گندا اور میلا کرنا۔
تَقَذَّرَ لَهُ بِالْشَيْءِ۔ کسی کے برخلاف
شرارت پر آمادہ ہونا۔ الرَّجُلُ۔ ننگوار
سمجھنا۔

الْقَذَعُ۔ گندگی۔ بے شرمی۔ فحش۔
الْقَذَعُ۔ گندا۔ میلا کچلا۔

الْقَذِيعَةُ۔ فحش گالی۔
الْقَذِيعُ وَالْأَقْذَعُ وَالْقَذَعُ۔ فحش،
گندہ۔ بولا جاتا ہے کہ۔ سَمَاكُ

بِالْمُقْدِعَاتِ وَالْمُقْدِعَاتِ۔ اس
پر فاحش اور گندگی کی تہمت لگائی۔
الْمُقْدِعُ۔ موٹا اونٹ۔

الْقَذْعِمَةُ۔ ٹھکنی اور خیس عورت۔ محاورہ

ہے کہ مَا عِنْدَهُ قَذْعِمَةٌ۔ اس کے
پاس کوئی چیز نہیں۔ مَا فِي السَّحَابِ
قَذْعِمَةٌ۔ آسمان پر کوئی امر کا ٹکڑا
نہیں ہے۔

قَذَفَ رَضًا، قَذَفًا۔ قے کرنا۔ الْمَذْرُوعُ۔
کشتی کو چبوتے سے چلانا۔ قَذَفَ يَقُولُهُ

بِالْحَجَرِ۔ پتھر پھینکنا۔ قَذَفَهُ
بِكَدٍّ۔ کسی چیز کی تہمت لگانا۔ بولا

جاتا ہے کہ هُمُ يَبْنِي حَاذِفٍ وَقَاذِفٍ
وہ عصا سے مارنے والوں، اور پتھر

پھینکنے والوں کے درمیان ہیں۔ و
اِسْتَقْذَفَ فُلَانًا بِالْحَجَرِ۔ کسی کو
پتھر سے مارنا۔ الرَّجُلُ۔ کسی شخص پر

بہتان لگانا۔

قَاذَقَهُ۔ ایک دوسرے پر تہمت لگانا اور
باہم گالی گلوچ کرنا۔

تَقَاذَفَ۔ الْمَاءُ وَالْفَوْسُ۔ تیز چلنا۔
القَوْمُ۔ ایک دوسرے کو گالی دینا۔
بِالْحِجَارَةِ۔ ایک دوسرے کو پتھر

مارنا۔ تَقَاذَفَتْ بِهِ الْأَمْوَاجُ۔ موجوں
کا ادھر ادھر دھکیلنا۔ محاورہ ہے کہ

تَقَاذَفَتْ بِهِ الْأَبْوَابُ۔ اس کو
دروازوں نے ایک دوسرے کی طرف
پھینک دیا، یعنی ایک دروازہ میں داخل

ہونا چاہا تو وہ بند کر دیا گیا، اسی طرح
ہر دروازے میں داخل ہونے سے محروم رہا۔

اَلْقَذْفُ۔ پھینکا جانا۔
الْقَذْفُ وَالْقَذْفُ وَالْقَذْفُ۔ جانب۔

طرف۔
الْقَذْفُ وَالْقَذْفُ۔ وہ جگہ جہاں سے کوئی

گر پڑے یا پھسل جائے۔
الْقَذْفُ وَالْقَذْفُ وَالْقَذْفُ وَالْقَذْفُ

دور۔ کہا جاتا ہے قَذَاةٌ اَوْ تَيْسَةٌ
قَذْفٌ وَقَذْفٌ۔ وہ جنگل و بیابان

www.waseemziyai.com

جو چلنے والے کو دور پھینک دے۔
بَلَدَةٌ قَذُوْفٌ۔ بہت دور کا شہر۔
قَوْسٌ قَذُوْفٌ۔ دور تک تیر پھینکنے
والی کمان۔ نَاقَةٌ قَاذِفٌ وَقِذَافٌ
وَقَذُوْفٌ وَقَذُوْفٌ۔ تیز رفتاری
اونٹنی جو چلنے میں اونٹ سے آگے
سب سے۔

الْقَذْفَةُ۔ جانب۔ طرف۔ بکترہ۔ پہاڑ کی
چوٹیوں کا اٹھا ہوا حصہ۔ ج۔ قَذَافٌ
وَقَذُوْفٌ وَقَذُوْفٌ وَقَذُوْفَانٌ۔

أَقْذَأُ الْقَصْرِ۔ محل کے کنگرے۔

الْقَذِيفَةُ وَالْقَذَافُ۔ پھینک کر مارنے
کا آلہ۔ ج۔ قَذِيفٌ۔ قَذِيفٌ

الْمَدَافِجِ۔ توپ کے گولے، کارتوس
القَذَافُ۔ تیز رفتاری۔

الْقَذَافُ۔ بھٹوڑا پانی۔

الْقَذَافُ۔ اسم مبالغہ ہے۔ سواری، میزان
(ترازو) گوبھیا۔ پتھر پھینکنے کا جنگی آلہ۔
ہر وہ چیز جس سے کوئی چیز دور پھینکی
جائے۔

الْمُقَذَّفُ۔ لعین۔ زیادہ گوشت والا فارس
مُقَذَّفٌ۔ وہ سوار جو لوٹ اور جنگ میں
زیادہ شریک ہوتا ہو۔

الْمُقَذَّفُ۔ ج۔ مَقَاذِفٌ وَالْمُقَذَّافُ
ج۔ مَقَاذِيفٌ۔ چپو۔ المَقَاذِفُ۔
ہلاکتیں۔ قَرَسٌ مُتَقَاذِفٌ۔ تیز رفتار
سیرِ مُتَقَاذِفٌ۔ تیز چال۔

قَذَلْ دَنْ قَذَلًا۔ گدھی پر مارنا۔ عیب
لگانا چھپے چلنا۔ قَذَلْ قَذَلًا۔
تجاوز کرنا۔ ظلم کرنا۔ فِي الْأَمْرِ۔
کوشش کرنا۔

الْقَذَلُ۔ عیب۔
الْقَذَالُ۔ گدھی ج۔ قَذَلٌ وَقَذَلَةٌ۔
قَذَمَ دَنْ، قَذَمًا۔ کہہ میں الماں۔
ایک دم مے دینا۔

قَذَمَ دَس، قَذَمًا۔ المَاءُ۔ پانی کا
گھونٹ لینا۔

الْقَذَمُ۔ تیز چلنا۔

الْقَذَمَةُ۔ پانی کا گھونٹ۔

الْقَذَمُ وَالْقَذَمُ۔ بہت بختنے والا سردار

الْقَذَمُ وَالْقَذَمُ۔ مِنَ الْبَارِ۔ بہت

پانی والا کنواں۔ بَلَرٌ قَذُوْمٌ۔ بہت

پانی والا کنواں۔ ج۔ قَذُوْمٌ۔

الْقَذِيْمَةُ۔ مال کا وہ حصہ جو کوئی آدمی دے

ج۔ قَذِیْمٌ۔

قَذِي يَقْذِي قَذِي وَقَذِيَانًا وَقَذِيَا

رَس، قَذِيْتُ عَيْنُهُ۔ کسی کی آنکھ میں

تنکا گر جانا۔ قَذِيَّةٌ وَقَذِيَّةٌ وَ

مَقْذِيَّةٌ۔ وہ آنکھ جس میں تنکا گر پڑا

ہو۔ الشَّرَابُ۔ پیئے کی شے میں تنکا

گر جانا۔

قَذِي رَضٍ يَقْذِي قَذِيًا وَقَذِي وَ

قَذِيًا وَقَذِيَانًا۔ قَذَتُ عَيْنُهُ۔ آنکھ

میں میں دیکھ کر آنا۔ قَذَتُ قَاذِيَةً۔

لوگوں کی جماعت آئی۔

أَقْذَى۔ عَيْنُهُ۔ کسی کی آنکھ میں تنکا ڈالنا۔

قَذَى۔ عَيْنُهُ۔ کسی کی آنکھ سے تنکا نکالنا۔

قَاذَى مُقَاذَاةً۔ الرجلُ۔ کسی آدمی کو

بدلہ دینا۔

اِقْتَذَى۔ الطَّائِرُ۔ پرندہ کا آنکھ سے تنکا

نکالنا جبکہ سر کھلاتا ہو۔

الْقَذَى۔ ج۔ قَذِيٌّ وَقَذَاةٌ وَ

الْقَذَاةُ۔ آنکھ یا پیٹنے کی چیز میں گرنے

والا تنکا یا کوڑا کرکٹ۔ بولا جاتا ہے۔

فُلَانٌ يُغْضِي عَلَى الْقَذَى۔ فلاں

شخصی ظلم سہتا ہے اور شکوہ نہیں

کرتا ہے۔ صَارَ الْأَمْرُ قَذَى فِي

الْقَذَى فِي عَيْنِ آخِيهِ وَغَبْنِي عَنِ
الْجَذْعِ فِي عَيْنِهِ۔ تم دوسرے کی
آنکھ میں تنکا دیکھ لیتے ہو اور اپنی آنکھ
میں شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔

الْقَوَادِي۔ جہ قَاذِيَّةٌ۔ وہ پہلی جماعت
جو کسی کے پاس آئے۔

الْقَذَى۔ باریک مٹی۔ ج۔ قَذِيٌّ وَقَذَاةٌ

رَجُلٌ قَذِيٌّ الْعَيْنِ۔ وہ شخص جس

کی آنکھ میں تنکا پڑ گیا ہو۔

الْقَذَاةُ۔ کم درجہ کے لوگ۔

قَرَرَنْ رَضٍ رَضٍ، قَرَرًا۔ اليوم۔ دن کا

ٹھنڈا ہونا۔ قَرَرَنْ رَضٍ، قَرَرًا۔ الْقَذَاةُ

ہاٹنی میں ٹھنڈا پانی ڈالنا۔ عَلَيَّهِ

الماء۔ کسی پر پانی ڈالنا۔ الْقَذَاةُ

فِي أَذُنِيهِ۔ کسی کے کان میں منہ لگا

کربات کرنا۔

قَرَرَتْ رَضٍ، قَرَرًا۔ الْحَيَّةُ۔ سانپ کا

آواز نکالنا۔ قَرَرًا وَقَرَرًا۔

الدُّجَا جَا جَا۔ مرغی کا اپنی آواز کو

منقطع کرنا۔

قَرَرَتْ رَضٍ رَضٍ، قَرَرَةً وَقَرَرَةً وَقَرَرَةً

۔ عَيْنُهُ۔ کسی کی آنکھ ٹھنڈی ہونا۔

مطلوبہ چیز کا حاصل ہو جانا۔ قَرَرِيرٌ

الْعَيْنِ يَأْخُذُهُ قَرَرِيرَةٌ۔ ٹھنڈی

آنکھ والا۔ مراد حاصل کرنے والا

قَرَرَسَ رَضٍ، قَرَرًا وَقَرَرًا وَقَرَرًا وَقَرَرًا

وَلَقَرَرَةً۔ فِي الْمَكَانِ اِدْعَى الْأَمْرَ

کسی جگہ یا کسی معاملہ پر قرار سکون

اختیار کرنا۔

قَرَرًا وَقَرَرًا۔ سردی لگ جانا۔

قَرَرَةً۔ بِالْأَمْرِ۔ کسی معاملہ کا اقرار کرنا۔

عَلَى الْحَيِّ۔ کسی پر حق ثابت کرنا۔

حق کا اعتراف کرنا۔ عَالِي الْمَكَانِ

أَوْ عَلَى الْعَمَلِ۔ کسی جگہ یا کام پر

مقرر کرنا۔ بولا جاتا ہے۔ قَرَرَتْ

ق

عِنْدَهُ الْخَبْرَ حَتَّى اسْتَنْدَ - میں نے اس کو خبر کا یقین کرا دیا۔
 قَارَ مَقَارَةً - الدُّجُلُ کسی آدمی کے ساتھ قرار پڑنا۔ موافقت کرنا۔ قَارَ فِي الصَّلَاةِ - نمازیں سکون اختیار کرنا اور حرکت نہ کرنا۔
 اقْرَأْ اقْرَاءً - فَلَانَا فِي الْمَكَانِ - کسی کو قائم و ساکن کرنا۔ الْعَامِلُ عَلَى الْعَمَلِ کارندہ کو کام پر باقی رکھنا۔ بِالْحَقِّ حق کا یقین و اقرار کر لینا۔ الْكَلَامُ کہہ کسی کو کلام سمجھانا۔ الطَّائِرُ فِي عَيْشِهِ - پرندہ کو اس کے گھونسلے میں مطمئن بننے دینا۔ اللَّهُ عَيْنُهُ و يَعْبُدُهُ - خدا کا کسی کو اس کا مقصد عطا کرنا۔ الدُّجُلُ - سکون و قرار پڑنا۔ تا بعد ہونا۔ سر دی لکنا۔ اللَّهُ الدُّجُلُ خدا کا کسی کو سر دی پہنچانا بمفعول خلاف قیاس بجائے مَقْرُوءٌ مَقْرُوءٌ آتا ہے۔ الْقِدْرُ - ہانڈی میں لگی ہوئی کوئی چیز صاف کرنا۔ اقْرَأْتِ اتقاهُ۔ اونٹنی کا حمل قرار پانا۔ اس کی صفت مُقَرَّرٌ آتی ہے۔
 تَقَرَّرَ - ثابت ہونا۔ تَقَرَّرَ الْقُرَّةُ - کھرچن لینا اور اس سے سالن کا کام نکالنا۔
 تَقَارَّ - فِي الْمَكَانِ - کسی جگہ سکون و قرار پڑنا۔
 اقْتَرَّ - فَلَانَا فِي الْعَمَلِ و عَلَيْهِ کسی کو کام پر لگانا۔ الدُّجُلُ - کھرچن کا سالن بنانا۔ مرد پانی سے نہانا۔ اقْتَرَّتْ وَ تَقَرَّرَتِ الدُّبُلُ - اونٹ کا سیر ہونا بہت فریب ہونا۔
 اسْتَقَرَّ - بِالْمَكَانِ - ساکن ہونا۔
 الْقَرَّ - مردوں کے سوار ہونے کی جگہ کجاوہ اور بن کے درمیان۔ بعض نے ہودج کہا ہے۔ قَرَّ الثَّوْبُ - کپڑے کی لپیٹ

یا نہ۔ یَوْمُ الْقَرِّ - وہ دن جو یوم النحر سے متصل ہے اور جس میں حجاج منی میں ٹھہرتے ہیں۔ یَوْمُ قَرِّ - ٹھنڈا دن۔ کَبِکَ قَرُّ وَ قَرَّةٌ - ٹھنڈی رات۔
 الْقَرَّتَانِ - صبح و شام۔
 الْقَرُّ - ٹھنڈک۔ کسی جگہ قرار پڑنا۔ قَرَاہ - محاورہ ہے کہ وَقَعْتَ بِقَرِّكَ - تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ مثلاً طالب انتقام کے لیے بولا جاتا ہے جب وہ انتقام لے لے۔ ایک لمبا کیڑا پانی کی سطح پر گھومنے والا۔ جس سے قَرُّ قَرِّ کی آواز سنائی دیتی ہے۔
 الْقَوَارِئُ - درزی۔ قصاب۔ وہ شہری جو طالب احسان نہ ہو۔
 الْقَرَأُ وَالْقَرَأَةُ - جائے قیام۔ ساکن اور اونچی زمین۔ قرار و سکون کا مقام۔ محاورہ ہے کہ صَارَ الْأَمْرُ إِلَى قَرَارٍ - معاملہ اپنی حد پر ساکن ہو گیا۔
 الْقَرَارُ - کسی مسئلہ کا وہ پہلو جس پر رائے طے پا جائے۔ أَهْلُ الْقَرَارِ شہر میں سکونت پذیر لوگ۔ اس کے مقابلہ میں أَهْلُ الْبَدْوِ - خانہ بدوش ہیں۔ حَارُ الْقَرَارِ - آخرت۔ الْقَرَارَةُ ٹھلنا۔ وہ گول گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے۔
 الْقَرَّةُ - اسم نوع ہے۔ سر دی عرب کی ضرب المثل ہے۔ حِقَّةٌ عَلَى قَرَّةٍ - اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے، جو دل میں کچھ رکھتا ہو اور ظاہر کچھ اور کرتا ہو۔
 الْقُرَّةُ او قُرَّةُ الْعَيْنِ - ایک بوٹی ہے جو پانی کی نالیوں میں ہوتی ہے۔ یہ بوٹی جریر کے علاوہ ہے۔ کیونکہ یہ شیریں ہوتی ہے اور جریر میں تیز ذائقہ ہوتا ہے۔ قُرَّةٌ عَيْنٍ - آنکھ کی ٹھنڈک۔

وہ چیز جو باعث راحت ہو۔ اَلْوَقْرَةُ گرگٹ کی کنیت ہے۔ کیونکہ سر دی اس پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اسی لیے یہ ہمیشہ اپنے سر کو سورج کے سامنے رکھتا ہے۔
 الْقَرَّةُ وَالْقَرَّةُ وَالْقَرَّةُ - مینڈک۔
 الْقَرَّةُ وَالْقَرَّةُ وَالْقَرَّةُ - ہانڈی کے نیچے والے حصہ میں لگی ہوئی چیز۔ کھرچن۔
 الْقُرَى - وہ سختی جو اس سے بچنے کے بعد بھی لاحق ہو جائے۔
 الْقَرَّةُ وَالْقَرَّةُ وَالْقَرَّةُ وَالْقَرَّةُ وَالْقَرَّةُ - وہ پانی جو ہانڈی پکانے کے بعد اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ جل جائے۔
 الْقَوْرُ - ٹھنڈا پانی۔
 الْقَارُورَةُ - آنکھ کا حلقہ۔ آنکھ کی پتلی۔
 کھجور یا چھوٹے کاربن - پینے کی چیز رکھنے کا برتن۔ جہ۔ قَوَارِيرُ۔
 التَّقَرُّرُ وَ التَّقَرُّرُ - قرار و سکون۔
 الْقَارُ - فَا - یَوْمُ قَارٍ - ٹھنڈا دن۔
 الْقَارَةُ - قَارُ کی مؤنث۔ عَيْنُ قَارَةٍ - ٹھنڈی آنکھ۔ خوش۔
 الْاَقَرُّ - اسم تفضیل۔ بولا جاتا ہے۔ آئِی الْاَیَّامِ اقْرُ - کوئسادن زیادہ ٹھنڈا ہے۔
 الْمَقَرُّ - جہ۔ مَقَارٌ وَالْمُسْتَقَرُّ - جائے قرار و سکون کی جگہ۔ مَقَرَّةُ الْبَسْرِ کنویں کی تہ میں وہ گڑھا جس میں پانی کم ہونے کے وقت جمع ہو جائے۔
 الْمَقَرَّةُ - پانی کا حوض۔ بڑا مٹکا۔
 الْمَقْرُوسُ - ٹھنڈا جس کو سر دی لگ گئی ہو۔
 قَرَأَ قَرَأً وَقَرَأَةً وَقَرَأَانًا (ف) و اقْتَرَأَ الْكِتَابَ - کتاب کو پڑھنا یا مطالعہ کرنا۔ قَرَأَ قَرَأَةً (ن ف)

شخص کا درود کو کھ میں مبتلا ہونا۔

قَارِبَهُ مُقَارِبَةً۔ باہم قریب ہونا۔ اچھے کلام کے ساتھ بات کرنا۔ قَادِبٌ فِي الْأَمْرِ۔ کسی کام میں درمیانہ طرز اختیار کرنا۔ کسی کام میں مبالغہ ترک کرنا۔

تَقَرَّبَ تَقَرُّبًا وَتَقَرَّبًا۔ نذرانہ لینا۔

رَأَى اللَّهَ بِالْقُرْبَانِ۔ خدا کے سامنے

نذرانہ یا قربانی پیش کرنا اور اس کی

قربت طلب کرنا۔ الرجل۔ پلو پر

ٹاٹھ رکھنا۔ محاورہ ہے کہ تَقَرَّبَ يَا رَجُلٌ۔ (جلدی کر) بعض نے کہا ہے

کہ یہ معنی صرف امر میں پائے جاتے ہیں۔

تَقَارَبَا۔ دونوں کا قریب ہونا۔ تَقَادَبَ

الزُّرْعُ۔ کھیتی کا پکنے کے قریب ہونا۔

لَا تَقْرُبِ الْوَعْدَ۔ وعدہ کا قریب

آ جانا۔ الشَّيْئَانِ۔ دو چیزوں کا

قریب ہونا۔

اِسْتَقْرَبَ۔ الشَّيْءَ۔ کسی چیز کو قریب

جاننا۔

الْقُرْبُ وَالْقَرَابَ۔ نزدیکی۔

الْقُرْبُ وَالْقَرَبُ۔ پہلو۔ کوکھ۔ ج۔

أَقْرَابُ۔

الْقَرَبُ۔ وہ کنواں جس کا پانی قریب ہو۔ ج۔

أَقْرَبُ۔ وَالْقَرَابَةُ۔ رات کو چلنا

تاکہ صبح کو سیراب ہو سکے۔

الْقُرْبَةُ وَالْقَرَبَةُ۔ نیک و پسندیدہ اعمال

جن سے خدا کی قربت حاصل ہو۔ ج۔

قُرْبٌ وَقُرْبَاتٌ۔ الْقَرَبَةُ۔ مرتبہ

یا جگہ کی قربت۔ الْقَرَبَةُ۔ مشکیزہ

ج۔ قُرْبٌ وَقُرْبَاتٌ وَقُرْبَاتٌ وَ

قُرْبَاتٌ۔ عرب میں ضرب المثل ہے

لَقِيتُ مِنْهُ عَذَقَ الْقَرَبَةِ۔ مجھے

اس سے تکلیف پہنچی۔

الْقَرَابُ۔ میان۔ تلوار وغیرہ کا غلاف۔ ج۔

قُرْبٌ وَأَقْرَبَةُ۔

الْقَرَاءُ۔ عمدہ طرز سے پڑھنے والا۔ ج۔

قَرَأَ عَوْنٌ۔

الْقَرَاءُ۔ عابد۔ ج۔ قَرَأَ عَوْنٌ وَ

قَرَأَ عَوْنٌ۔

الْمَقْرُوءُ وَالْمَقْرِيُّ وَالْمَقْرُورُ۔ وہ شے

جو پڑھی جائے۔

الْمَقْرُوءُ۔ وہ چیز جس پر کتاب رکھ کر پڑھی

جائے جیسے تپائی ڈیسک وغیرہ۔

الْمُتَقَرِّبِيُّ۔ عابد۔

قُرْبٌ، وَقُرْبٌ قُرْبًا وَقُرْبًا وَقُرْبًا نَا

رِس۔ لک قریب ہونا۔ قُرْبَةً وَ

قُرْبٌ وَمِنْهُ وَالْيَدِ۔ کسی چیز کے

قریب ہونا۔

قُرْبٌ قُرْبًا۔ کوکھ کے درون شکایت ہونا۔

قُرْبٌ قُرْبًا رِنَ السَّيْفِ۔ تلوار کو میان

میں کرنا۔ تلوار کے لیے میان بنانا۔

بَنَانُ وَالْقَارِبُ اور تلوار مَقْرُوبٌ

ہے۔

أَقْرَبُ۔ الْإِنَاءُ۔ برتن کو بھرنے کے قریب

کرنا۔ أَقْرَبْتُ الْحَامِلُ۔ حاملہ کا

قریب الولادت ہونا۔ قَرَابًا مِیَان

بنانا۔ الرَّاحِی الْإِبِلِ۔ چرواہے کا

رات کے وقت اونٹ کو لے جانا تاکہ

اگلی صبح کو سیراب کرے۔ فاعل قَارِبٌ

ہے اور مَقْرِبٌ نہیں۔ اور اونٹوں کو

قَوَارِبُ کہتے ہیں نہ کہ مَقْرِبَةُ۔

قَرَبَهُ۔ کسی کو قریب کرنا۔ قَرَبَهُ الْإِمْبِيرُ

امیر کا کسی کو اپنے خواص میں شامل کرنا۔

قُرْبُ الْقُرْبَانِ لِلَّهِ۔ خدا کے سامنے

قربانی پیش کرنا۔ الْكَاهِنُ فَلَانًا۔

(عیسائیوں کے نزدیک) کسی کو قربانی

کی چیز دینا۔ قُرْبٌ فَلَانًا۔ کسی کو

حَبَّانَ اللَّهِ وَقُرْبٌ دَاذَكَ كَسْنَا۔

الْفُوسُ۔ گھوڑے کا دوڑنا۔ تقریبًا

گھوڑے کا دُلّی چلنا۔ الرَّجُلُ۔ کسی

علیہ السلام۔ کسی کو سلام پہنچانا۔

جب اس سے صیغہ امر بنایا جائے گا تو

کہا جائے گا اِقْرَأْ عَلَیْهِ السَّلَامُ۔

بلا حرف جبر علی کے متعدی نہیں ہوتا

لِذَا اِقْرَأَ السَّلَامُ۔ نہیں کہا جاسکتا

۔ قَرَأَ وَقَرَأْنَا۔ الشَّيْءُ طَانًا۔ جمع

کرنا۔ النِّاقَةُ۔ اونٹنی کا حاملہ ہونا۔

الْحَامِلُ۔ بچہ دینا۔

قَارَعَهُ قَوَاعًا وَمُقَارَاةً۔ پڑھنے یا

درس میں ایک دوسرے کے ساتھ

شریک ہونا۔

أَقْرَأَهُ اِقْرَاءً۔ الرَّجُلُ۔ کسی کو پڑھانا۔

۔ السَّلَامُ۔ کسی کو سلام پہنچانا۔

أَقْرَأَ مِنَ السَّفَرِ۔ سفر سے لوٹنا۔

الْأَمْرُ۔ قریب ہونا۔ عندہ۔ پھر جانا۔

النَّجْمُ۔ غائب ہو جانا۔ الرَّجُلُ

عبادت گزار ہونا۔ الْحَاجَةُ۔ ضرورت

کو مؤخر کرنا۔ أَقْرَأَتِ الرِّیَاحُ۔ ہواؤں

کا اپنے وقت پر چلنا۔ زَبْدٌ۔ پیچھے

لوٹنا۔ الْحَاجَةُ۔ ضرورت کا مؤخر

ہونا۔

تَقَرَّرَ۔ عبادت کرنا۔ علم حاصل کرنا۔

اِسْتَقْرَأَ اِسْتِقْرَاءً۔ فَلَانًا۔ کسی سے

پڑھنے کی خواہش کرنا۔ الْأُمُورُ۔

حالات معلوم کرنے کے لیے تجسس و

تحقیق کرنا۔

الْقَرَاءَةُ۔ پڑھنے کی کیفیت۔ ج۔ قَرَأَتْ

الْقُرْءُ۔ ذقت۔ قافیہ۔ ج۔ أَقْرَأَ وَقُرُوْءُ

وَأَقْرَأُ۔ أَقْرَأَ الشَّعْرَ۔ شعر کے

مقاصد و انواع و بحریں۔

الْقُرْءَةُ۔ وبا۔

الْقُرْآنُ۔ قرآن کریم

الْقَارِئُ۔ عابد۔ ج۔ قَرَأَ وَقَارِعُونَ

وَقَرَأَةُ۔

الْأَقْرَأُ۔ فصیح پڑھنے والا۔ زیادہ پڑھنے والا۔



قَرَابُ الشَّيْءِ وَقَرَابَةُ: کسی چیز کے اندازہ کے مطابق۔ الْقَرَابُ وَالْقَرَابَةُ: قریب۔ کہا جاتا ہے۔ "مَا هُوَ بِشَيْبِيهِكَ وَلَا بِقَرَابَةٍ مِنْكَ"

وہ نہ تیرے مشابہ ہے نہ قریب۔

القُرْبَى وَالْقَرَبَةُ وَالْقَرَابَةُ: رشتہ

داری۔ قرابت داری۔ فی الإناء

قُرْبَةً: بطن بھرنے کے قریب ہوا۔

القُرْبَانُ: وہ چیز جس کے ذریعہ تقرب الی اللہ حاصل کیا جائے۔ ذبیحہ ہو یا کچھ

اور بادشاہ کا ندیم۔ جر۔ قَرَابَتُ

القَرَابَتُ: من الأبیة۔ وہ بطن جو پڑ

ہونے کے قریب ہو۔ مَوْنُ قُرْبَى

جر۔ یَتَامَیْنُ۔ القَرَبَانُ: بادشاہ

کا خاص ندیم۔

القَرَابُ: چھوٹی گشتی۔ جر۔ قَوَارِبُ

القَرَابُ: رات کو پانی تلاش کرنے والا۔

القَرِیْبُ: نزدیک۔ رشتہ دار۔ جر۔

أَقْرَبَاءُ وَقَرَابَى: مَوْنُ قَرِیْبَةٍ

جر۔ قَرَابِیْ۔ القَرِیْبُ: فارسی

بحرول میں سے ایک بحر کا نام۔ جَاءُوا

قُرَابَى: وہ سب باہم قریب ہو کر آئے

یہ قُرَیْبُ کی جمع خلاف قیاس ہے۔

الْأَقْرَبُ: اسم تفضیل ہے۔

أَقْرَبَاءُ الذَّیْلِ وَأَقْرَبُهُ وَأَقْدَبُوهُ

کسی کے قریبی رشتہ دار۔

قَرَبَنَى: ایک لمبی ٹانگوں والا گریلا کے

مشابہ کیڑا۔

الْمَقْرَبُ: دُکلی چال۔

المُقَرَّبُ: مِنَ الذَّیْلِ: وہ گھوڑا جس

کی شرافت کی وجہ سے اس کے باندھنے

اور گھاس ٹالنے کی جگہ قریب بنائی

جائے۔ جر۔ مُقَرَّبَةٌ

المَقْرَبُ وَالْمَقْرَبَةُ: مختصر راستہ۔

المَقْرَبُ: رات کو چلنا۔ المَقْرَبُ

مِنَ الْحَوَائِلِ: وہ عاملہ جس کے بچہ

پیدا ہونے کے دن قریب ہوں۔ جر۔

مَقَارِبُ وَمَقَارِیْبُ

المَقْرَبَةُ وَالْمَقْرَبَةُ وَالْمَقْرَبَةُ

رشتہ داری۔ قرابت داری۔

المَقَارِبُ: عمدہ اور ردی کے درمیان۔

متوسط۔ متوسط الحال۔

المَقَارِبُ: مِنَ الْمَتَاعِ: مستساہان۔

المَتَقَارِبُ: اشعار کی ایک بحر کا نام۔ جس

کا وزن آٹھ بار فَعُولُنْ ہے۔ کوتاہ قد

آدمی۔ ٹھکنا۔

القَرَبُوسُ: زین کے بیٹنے کے حصہ کا اگلا

اور پچھلا کوٹان یا حصہ۔ ہر دو حصوں

کو قَرَبُوسَانِ کہتے ہیں۔ جر۔

قَرَابِیْسُ

قَرَّتْ قَرْنًا وَقَرْنًا (انض) قَرَّتْ

قَرْنًا (اس) الدَّمُ: خون کے بعض

حصہ کا بعض پر خشک ہو جانا۔ خون کا

زخم میں مرجانا۔ خون کا چوٹ کی وجہ

سے کھال کے نیچے جم جانا۔ مار کے

سبب سے جلد پر نیل پڑ جانا۔ قَوْتُ

الظُّفْرِ: ناخن کے نیچے خون کا مرجانا

۔ الرَّجُلُ: غم یا غصہ سے آدمی کے

چہرے کا متغیر ہونا۔

قَوْتُ قَرْنَتَانِ، الرَّجُلُ: آدمی کا

خاموش ہو جانا۔

القَارِثُ وَالْمَقْتَرِثُ: وہ شخص جو ہر

چیز کو کھا جائے۔ دَمُ قَارِثٍ: وہ

خون جو گوشت اور کھال کے درمیان

جم جائے۔

القَارِثُ وَالْقَرَاتُ: بہترین مُشَق۔

القَرَاتُ: پالا۔ برف۔

قَرَّتْ قَرْنًا (اس) الرَّجُلُ: مشقت کرنا

اور کٹنا۔

قَرْنَةُ قَرْنَتَانِ، الرَّجُلُ: کسی کام کا

سخت ہونا۔

القَرِیْبُ: ایک قسم کی مچھلی۔

قَرَحَةُ قَرَحَاتٍ وَقَرَحَةٌ: زخمی کرنا۔

قَرَحَ قَرَحَتِهِ الْبُتْرُ: ایسی جگہ کنواں

کھودنا جہاں پہلے نہ کھودا گیا ہو۔ قَرَحَةُ

بِالْحَقِّ: حق کے ساتھ استقبال کرنا۔

قَرَحَتِ الْبُتْرُ: گھاس پھوٹنا۔ الارضُ

زمین میں گھاس اگنا شروع ہونا۔

قَرَحَ قَرُوحًا وَقَرَحَاتٍ، قَرَحَ

قَرَحَاتِ الْفَرْسِ: گھوڑے کے

چاروں دانت نکلنا۔

قَرَحَتْ قَرُوحًا وَقَرَحَاتِ الْفَرْسِ: پھوٹے

نکلنا۔ قَرَحَ الْقَلْبُ مِنَ الْحُزَنِ

غم سے دل زخمی ہونا۔ قَرَحَتْ سِنَّةُ

الصَّبِيِّ: لڑکے کے دانت نکلنے کے

قریب ہونا۔

قَارَحَةُ مَقَارِحَةٍ: مقابل ہونا۔

أَقْرَحَ الْفَرْسُ: گھوڑے کا دانت نکالنا۔

پنج سالہ ہونا۔ أَقْرَحَهُ اللَّهُ: خدا کا

کسی کے جسم پر پھوٹے نکالنا۔

تَقَرَّحَ لِلْأَمْرِ: کسی معاملہ کے لیے تیار ہونا

۔ الْجَسَدُ: جسم پر پھوٹے نکلنا۔

إِقْتَرَحَ: الخَطْبَةُ: فی البدیہہ خطبہ دینا۔

۔ الْأَمْرُ: بلا کسی سابق مثال کے کوئی

چیز ایجاد کرنا۔ الشَّيْءُ: بغیر سننے کے

اپنی طرف سے کوئی چیز استنباط کرنا۔

کوئی چیز منتخب و اختیار کرنا۔ الْبَعِیْرُ

اس اونٹ پر سوار ہونا جس پر اب تک

کوئی سوار نہ ہوا ہو۔ عَلَیْهِ كَذَا

او بکذا: کسی کام کے لیے زبردستی کرنا۔

جَبْرًا اور بلا تا مل سوال کرنا۔ عَلَیْهِ كَذَا

کسی چیز کے بنانے کی خواہش کرنا۔ کہا

جاتا ہے۔ إقْتَرَحَ عَلَیْهِ صَوْتٌ

کذا: اس نے فلاں سے ایسی آواز کی

خواہش کی۔ الْبُتْرُ: ایسی جگہ کنواں کھودنا



جہاں یا تو پہلے کنواں نہ کھودا گیا ہو یا وہاں پانی نہ ہو۔
 الْقَرْوُحُ - زخم - پھوڑا - شدید خارش جو اونٹ کے بچوں کے لیے مہلک ہے۔
 جہ - قَرْوُحُ۔
 الْقَرْوُحُ - ہر چیز کا اول حصہ۔ کنواں کھودتے وقت پہلی مرتبہ جو پانی نکالا جائے۔ ہر مہینہ کی ابتدا کی تین راتیں۔
 الْقَرْوُحُ - اونٹ کو خارش نہ ہونے کی حالت۔

الْقَرْحَةُ وَالْقَرْحَةُ - وہ پرانا پھوڑا جس میں پیپ جمع ہو۔ قَرْحَةُ الشَّتَاءِ - اوالصَّيْفِ - سردی یا گرمی کا ابتدائی حصہ۔ الْقَرْحَةُ فِي وَجْهِ الْفَرَسِ - گھوڑے کے ماتھے کی سفیدی یا چھوٹا سفید نشان - هُوَ قَرْحَةُ أَهْلِيَابِهِ - وہ اپنے ساتھیوں میں افضل ہے۔
 الْقَرْحُ - پھوڑے یا زخم والا۔
 الْقَرَامُ - خالص پانی۔ وہ زمین جس میں نہ پانی ہو نہ درخت۔ جہ - أَقْرِحَةُ۔
 الْقَرْحَانُ - مِنَ الْإِبِلِ - وہ اونٹ جس کو کبھی خارش نہ ہوئی ہو۔ مِنَ النَّاسِ - وہ شخص جو کبھی پھنسی پھوڑے میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ واحد اور جمع سب کے لیے۔
 الْقَرْحَانُ وَالْقَرَّاحِيُّ - جو کبھی جنگ میں شریک نہ ہوا ہو۔ کہا جاتا ہے۔
 أَنْتَ قَرْحَانٌ وَقَرَّاحِيٌّ مِنَ الْأَمْرِ - تو اس معاملہ سے خارج ہے۔ مؤنث۔
 قَرَّاحِيَّةٌ - الْقَرَّاحِيُّ - وہ شخص جو ہمیشہ آبادی میں رہے اور کبھی جنگل میں نہ نکلے۔

الْقَرَّاحِيَّتَانِ - ہر دو پہلو۔ دونوں کو کھ
 الْقَرَّاحُ - (دفاعی) - مِنْ ذِي الْحَافِرِ - وہ کھڑا جانور جس کے دانت نکل آئے ہوں۔ جہ - قَوَارِحُ وَقَرَّحٌ وَمَقَارِيحُ

مؤنث قَارِحٌ وَقَارِحَةٌ - جہ۔
 قَارِحَاتٌ وَقَوَارِحُ - الْقَارِحُ - شیر۔ وہ کمان جو تانت سے جڑا ہو۔
 قَارِحُ الْفَرَسِ - گھوڑے کی وہ عمر جس میں اس کے دانت نکل آئیں۔
 الْقَرِيحُ - زخمی۔ جہ قَرْحِيٌّ وَقَرَّاحِيٌّ۔
 پانی وغیرہ جو خالص ہو۔ سب سے پہلے ظاہر ہونے والا ابر۔ قَرِيحٌ۔
 الْمَسْحَابَةُ - ابر سے برستا ہوا پانی۔
 الْقَدِيحَةُ - ہر چیز کا پہلا حصہ۔

کنویں کا سب سے پہلا نکالا ہوا پانی۔
 الْقَرِيحَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ - انسان کی طبیعت۔ قَرِيحَةُ الشَّاعِرِ - او الکاتب۔ وہ لکھ جس سے بہترین نظم یا کتابت کا ظہور ہو۔ جہ - قَرَّاحِيٌّ۔
 الْقَرَّحُ - اسم تفضیل - صبح۔ قَرَّاسٌ - آقَرُحُ - وہ گھوڑا جس کی پیشانی پر سفید نشان ہو۔ مؤنث قَرْحَاءُ۔
 جہ - قَرْحُ - رَوْضَةُ قَرْحَاءُ - وہ باغ جس کا سبزہ اگنا شروع ہوا ہو۔ یا جس کے درمیان میں سفید پھول ہوں۔
 الْمَقَرَّوْحُ - مِنَ الطَّرِيقِ - وہ راستہ جو نشاناتِ قدم کی وجہ سے واضح و ظاہر ہو۔ وَالْمَقَرَّوْحُ - زخمی پھوڑوں والا۔ لِقِيَّتُهُ مَقَارِحَةً - آنے سامنے ملاقات کی۔

قَرْدٌ قَرْدٌ أَرَسَ، الْأَدْيُحُ - ادھوڑی میں کپڑا لگ کر اس کو سوراخ دار کر دینا۔
 - الْمَكْحَلُ فِي الْعَيْنِ - سرمہ کا منتشر ہونا۔
 أَسْنَانُهُ - دانتوں کا چھوٹا ہونا اور موٹھوں سے متصل ہونا۔
 الْعَلَاكُ - گوند کا ذائقہ خراب ہونا۔
 وَلَقَرْدٌ الشَّعْرُ - بالوں کا گھونگھریلے ہونا۔ بالوں کا چٹک ہونا۔
 قَرْدٌ وَقَرْدٌ وَأَقَرْدٌ - عاجز ہو کر خاموش

ہونا۔ زمین سے چٹنا۔ قَرْدٌ - دھوکا دینا۔ قَرْدٌ الْبَعِيرُ - اونٹ کی چھڑی دور کرنا۔ أَقَرْدٌ وَقَرْدٌ - إِلَيْهِ - کسی کی اطاعت کرنا۔ أَقَرْدُ الْمُتَحَرِّكِ - ساکن ہونا۔ أَقَرْدُ الْبَعِيرُ - اونٹ کا چھڑی والا ہونا۔ ایسی نرم چال چلنا کہ سوار کو حرکت نہ ہو۔

قَرْدٌ قَرْدٌ أَرْضٍ - الْمَالُ - مال کا نام۔
 فِي السَّقَاءِ - مَشِيئَةٍ - گئی یا دودھ جمع کرنا۔

الْقَرْدُ - کوتاہ قد۔ گردن (معرّب)
 الْقَرْدُ وَالْقَرَادُ - چھڑی۔ واحد - قَرْدَةٌ وَ قَرَادَةٌ ہے۔ جہ - قَرْدَانٌ -
 الْقَرَادُ - سرپستان بجھتی۔ نَزَعْتُ قَرَادَ فُلَانٍ - فلاں کو دھوکا دیا۔
 الْقَرْدُ - بندر۔ عام لوگ اس کو سعدان کہتے ہیں۔ جہ - أَقْرَادٌ وَأَقَرْدٌ وَ قَرُودٌ وَقَرْدٌ وَقَرْدَةٌ وَقَرْدَةٌ - مؤنث قَرْدَةٌ - جہ - قَرْدٌ۔

الْقَرْدُ - اُون وکستان کا ردی ونا کارہ حصہ کھجور کی وہ شاخ جس کی پتیاں جڑا کر دی گئی ہوں۔ واحد - قَرْدَةٌ ہے۔
 الْقَرْدُ - زبان کی رکاوٹ۔ بکلا پن۔ ابر کے چھوٹے ٹکڑے جو ابھی بل کر بادل نہ بنے ہوں۔ الْقَرْدُ مِنَ الْإِبِلِ - بہت چھڑی والا اونٹ۔ وہ ابر جو خوب چھا جائے۔ رَجُلٌ قَرْدٌ الْقَجْدِ - وہ شخص جس کے دانت پیدائشی طور پر چھوٹے ہوں۔ رَجُلٌ قَرُودٌ - ساکن شخص۔

الْقَرَادُ - بندر کو سدھانے والا۔
 قَرْدٌ قَرْدٌ حَلَاةٌ - اس چیز کا اقرار کر لینا جو اس سے طلب کی جائے۔ تا بعد۔
 ہونا۔ عوام میں پھیلنا۔ اور اس کی حرمت کرنے کے معنی میں استعمال



کرتے ہیں اور اس کام کرنے والے کو
قَرْدَاجِی اور قَرْدَاجِجی کہتے ہیں۔
قَرْدَسَمَ لَہ۔ کسی پر ناجائز یا دنی کرنا۔
القَرْدُومُ والقَرْدُومُ۔ بڑا بند۔
القَرْدَحَةُ والقَرْدُوحَةُ۔ بالغ لڑکے
کے گلے میں ایک گھٹی جیسا نرم بلیوں
کا اُچار۔

المُقَرَّنُ۔ بالشر۔ شرارت پر آمادہ
شر پر تیار۔
المُقَرَّدُ۔ جَرَقُودُ۔ القَرْدُودُ۔ ج۔
قَرَادِیدُ۔ والقَرْدُودَةُ۔ سخت
اور اونچی زمین۔ القَرْدُودُ۔ انسان
کو پیٹھ کا درمیان۔ قَرْدُودَةُ
الشَّتَاءِ۔ چارٹے کا سخت اور تیزی۔
قَرْدُودَةُ القَرْدُومِ۔ پیٹھ کا بند حصہ
سج اور وہیں بولا جاتا ہے کہ جَا عَ
بِالْحَدِیثِ عَلَی قَرْدُودِجَ۔ اس نے
بات پر محل کی۔

القَرْدُودَةُ۔ کلام کی سختی۔ وہ خط جو کر کی
وسط میں ہے۔ مرد کا سر۔ پہاڑ کا سرا۔
ج۔ قَرَادِیدُ۔

قَرْدَسَہُ قَرْدَسَہُ۔ مضبوط کرنا۔ قَرْدَسَ
جہڑو الکلب کہتے کے پٹے کو پکارنا۔

القَرْدَسَہُ۔ سختی و شدت۔
القَرْدَعَةُ۔ ذلت۔

القَرْدَعَةُ۔ گردن۔ آخَذَ بِقَرْدَعَتِهِ۔
اس نے اس کو گردن سے پکڑا۔

قَرْدَکَ قَرْدَازِ (ن) کھرچ کر صاف کرنا۔
قَرْدُ الذُّرَابِ وَنَحْوُہُ۔ مٹی وغیرہ
کی مٹھی بھرنا۔

القَرْدُ۔ طیلہ۔ سخت زمین۔
القَرْدَةُ۔ مٹھی بھر۔

قَرْدَمُ۔ الشَّاعِرُ شَعْرَتُہُ۔ شاعر کا رُوی
اشعار کہنا۔

القَرْدَامُ۔ گھٹیا شاعر۔

المُقَرَّرُ۔ حقیر و کمینہ۔ بہت نسب والا۔
رَجُلٌ مُقَرَّرٌ۔ وہ کو تاہ قد شخص
جس کا جسم گھٹا ہوا اور ٹھوس ہو۔
قَرَسَ قَرَسًا (ض) المَاءُ۔ ٹھنڈا ہونا۔ جہنا
- البَرْدُ۔ سخت سردی پڑنا۔
المَقْرُوسُ۔ سردی زدہ کا کام نہ کر
سکتا۔

قَرَسَ قَرَسًا (س) البَرْدُ۔ سردی کا شدید
ہونا۔ الرَجُلُ۔ سرما زدہ ہونا۔

أَقْرَسَ العُودُ۔ لکڑی کا پانی اس میں جم جانا۔
أَقْرَسَ البَرْدُ أَصَابَہُ۔ سردی سے
انگیوں کا ٹھٹھکا جانا اور کام کے قابل
نہ رہنا۔

أَقْرَسَ وَقَرَسَ۔ البَرْدُ فُلَانًا۔ سردی
کا کسی کو اکڑا دینا۔ یقیناً دینا۔

أَقْرَسَ وَقَرَسَ۔ المَاءُ۔ پانی بوجہ شدت
سردی جمادینا۔

القَرَسُ والقَرَسُ والقَرَسُ۔ سخت
جاڑا۔ القَرَسُ والقَرَسُ۔ منجمد جما ہوا
أَصْبَحَ المَاءُ قَرَسًا۔ پانی منجمد ہو گیا۔

القَرَسُ۔ چھوٹے پتھر۔
القَارِسُ۔ شدید سردی۔ شَیْءٌ قَارِسٌ و
قَرِیسٌ۔ پرانی چیز۔

القَرَسُ والقَرَسِیَّةُ۔ مِنَ الدَّیْلِ و
غَبْرِہَا۔ بڑا دنٹ۔ مُلْكٌ قَرَسِیَّةٌ
زبردست ملک۔ عَزَّ قَرَسِیَّةٌ
بلند عزت۔

القَرَسِیَّةُ۔ ایک درخت جس میں سیاہ
انگور کے مشابہ پھل لگتے ہیں۔ یہ کلمہ
غیر عربی ہے اس کو قَرَا صِیَا صا د سے

بھی اُلا کیا جاتا ہے۔
قَرَشَہُ قَرَشَانِ (ض) کاٹنا۔ قَرَشَ
الجَبِشَ بِالرِّمَاحِ۔ لشکر کا نیزے

مارنا۔ الشَّیْءُ۔ کسی چیز کو ادھر ادھر سے
جمع کرنا اور ملانا۔ مِنَ الطَّعَامِ۔ بھڑوا

ساکھانا حاصل کرنا۔ قَرَشَہُ وَتَقَرَشَہُ
لِغَبَالِہِ۔ اہل و عیال کے لیے کمانا۔
قَرَشَہُ بَیْنَهُمُ۔ ایک دوسرے پر
برا ٹیختہ کرنا اور چغل خوری کرنا۔

قَرَشَہُ۔ قریش میں سے قرار دینا۔
أَقْرَشَہُ۔ چغل خوری کرنا۔ کسی کے عیب
کی خبر دینا۔ أَقْرَشَتُہُ الشُّجَّةُ۔

بڑی کا ٹوٹنا اور ریزہ ریزہ نہ ہونا۔
تَقَرَشَہُ۔ المَالُ۔ مال کو جمع کرنا۔ عَرِنَ
السَّیِّئَاتِ۔ برائیوں سے دور ہونا۔ پاک
ہونا۔ الشَّیْءُ۔ کسی چیز کو اڈل اڈل لے
لینا۔ الشَّیْءُ۔ کسی چیز سے چمٹ جانا۔
تَقَرَشَہُ القَوْمُ۔ قوم کا جمع ہونا۔
تَقَرَشَتْ وَتَقَارَشَتْ الرِّمَاحُ۔
نیزوں کا لڑائی میں باہم ٹکڑا نا۔ تَقَارَشَہُ
القَوْمُ۔ ایک دوسرے کا باہم نیزہ مارنا
اور ٹکرانے سے آواز کا پیدا ہونا۔

أَقْتَرَشَہُ لِغَبَالِہِ۔ کمانا۔ مَا قَتَرَشَتْ
الرِّمَاحُ۔ بعض کا بعض سے ٹکرانا۔
بہ۔ کسی کی چغلی کرنا اور اس کے نقصان
پہنچانے کا کام کرنا۔

القَرَشُ۔ جو ادھر ادھر سے جمع کیا جائے۔
ج۔ قَرُوشُ۔ قَرَشُ الشَّیْءِ۔ کسی
چیز کی آواز۔

القَرُوشُ۔ ایک ترکی سکے۔ ج۔ قَرُوشُ۔
(دخیل ہے) القَرُوشُ والقَرُوشُ۔
ایک قسم کی پھل جس کو کَلْبُ البَحْرِ کہتے
ہیں۔ یہ حیوانات کو پانی میں توار کی طرح
دانت سے کاٹ دیتی ہے۔

قَرُوشُ۔ عرب کا ایک مشہور قبیلہ۔ اس کی
طرف نسبت کے لیے قَرُوشِیٌّ اور
قَرُوشِیٌّ کہتے ہیں۔ رِمَاحٌ قَرُوشِیٌّ
لڑائی میں ایک دوسرے سے ٹکرانے
اور داخل ہونے والے نیزے۔ جُبُنُ
قَرِیشُ۔ بہت خشک پیر۔



مِقْرَاضٍ کتے ہیں۔ واحد مِقْرَاضٌ
کتے ہیں۔ ج۔ مِقْرَاضٌ
المِقْرَاضُ۔ مخمر کھیتی۔ بڑے ٹکے۔ شراب
کے برتن۔

قَرَضَبُ۔ الشَّيْءُ کسی چیز کو متفرق کرنا۔
الرَّجُلُ کوئی خشک چیز کھانا۔
اللَّحْمُ فِي الْمَرْمَلَةِ گوشت کو لٹائی
میں جمع کرنا۔ فَلَائِ۔ دوڑنا۔ اللَّحْمُ
تمام گوشت کو کھا جانا۔ محاورہ ہے کہ
قَرَضَبَ الذِّئْبُ الشَّاةَ بھیر یا ساری
بکری کو کھا گیا۔

القَرَضَبُ۔ چھنی میں باقی ماندہ فصلہ جو چھینک
دیا جائے۔ بھوسی۔
القَرَضَابُ والقَرَضُوبُ۔ بہت تیز نلوار۔
پور۔ خشک چیز کھانے والا۔ فقیر۔ ج۔
قَرَأَ ضَبْلَةً۔

القَرَأَضِبُ۔ ہر چیز کو ہر پ کر جانے والا۔
ج۔ قَرَأَضِبُ۔

قَرَضَمَ۔ الشَّيْءُ کسی چیز کو کاٹنا۔ کوئی چیز
لینا اور اس کو لے جانا۔ هُوَ يَقْرَضُهُ
کُلُّ شَيْءٍ وہ ہر چیز لے جاتا ہے۔
قَرَطَ قَرَطَارًا، اَلْكَزَاتِ وَنَحْوَهُ۔ گندنا
وغیرہ کے ٹکڑے کرنا۔

قَرَطَ قَرَطَارًا، التَّيْسُ۔ بکرے کے
کان اس طرح سے کٹے ہوئے ہونا کہ وہ
ٹٹکتے رہیں۔ صفت اَقْرَطَ ہے۔

قَرَطَ۔ الشَّيْءُ کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
- الْجَارِيَةُ۔ لڑکی کو بالی پہنانا۔ الْقَرَمُ
گھوڑے کو لگام دینا۔ الْمِسْرَاجُ
چراغ کا گُل جھاڑنا۔ عَلَى الرَّجُلِ
کسی شخص کو تھوڑا تھوڑا دینا۔ الْيَدِ
رَسُولًا کسی کے پاس جلدی قاصد
بھیجنا۔

تَقَرَّطَتِ الْمَرْأَةُ۔ بالیاں پہننا۔
الْقِرْطُ۔ ایک قسم کا گندنا ہے۔

الْقُرْطُ۔ بالی۔ کان میں پہننے کا زیور۔ ج۔
اَقْرَاطٌ وَقِرَاطٌ وَقُرُوطٌ وَقِرْطَةٌ
- الْقُرْطُ۔ آگ کا شعلہ۔ بھقن۔ ایک
گھاس جو اسپست کے مانند ہوتی ہے
پروین دبوچ مشابہت، الْقُرْطُ مِنَ
الْمَوْزِ وغیرہ۔ کیلے وغیرہ کا خوشہ۔
الْقِرْطَةُ وَالْقِرْطَةُ۔ بکرے کے کٹے ہوئے
کان کا ٹکٹا ہوا حصہ۔

الْقِرَاطُ۔ چراغ۔ چراغ کی نو۔ وَالْقِرَاطَةُ
بتی کا گُل۔ بتی کا کاٹا ہوا حصہ۔

الْقِرَاطُ وَالْقِرَاطُ۔ دانت کا نصف وزن
بعض نے دینار کے چھٹے حصہ کی
چوتھائی مقدار بتلائی ہے اور بعض نے
دسویں حصہ کا نصف کہا ہے۔ ہر چیز کا
چوبیسواں حصہ۔ فِي الْمَسَاحِزِ۔ ایک
انگلی کے عرض کے برابر چوڑائی رہیہ
کلمہ داخل ہے۔

الْقِرَاطُ عِنْدَ الْيُونَانِ۔ ایک خروب
کے دانہ کے برابر۔ آدھا دانت درہم۔
اہل یونان کے نزدیک بارہ دانوں کے
برابر ہے۔ ج۔ قَرَارِيْطُ۔ الْقَرَارِيْطُ
الطی کا بیج۔

الْقِرَاطُ۔ پُلٹس۔ مرہم جس کا سیپ کیا
جاتا ہے (یہ کلمہ داخل ہے)
قَرُطْبَةُ قَرُطْبَةٍ۔ چت پچھاڑنا۔ قَرُطْبُ
الْجَزْوَسِ۔ اونٹ کی بڑیوں کا کاٹنا۔
الرَّجُلُ۔ آدمی کا شدید غضبناک ہونا۔
تیز بھاننا۔ بھاگ جانا۔

تَقَرَّطَبَ عَلَى كَفَاةٍ۔ چت پچھاڑنا۔
الْقَرَاطِبُ۔ بہت کاٹنے والا۔
الْقَرُطْبِي۔ تنوار۔
قُرُطْبَةٌ۔ اندس کے ایک شہر کا نام۔
قَرُطَسَ۔ نشانہ پہننا۔

تَقَرَّطَسَ الرَّجُلُ۔ ہلک ہونا۔ الْقِرْطُسُ
وَالْقِرْطُسُ وَالْقِرْطُسُ

وَالْقِرْطُسُ۔ کاغذ۔ الْقِرْطُسُ
نشانہ۔ مہری پادری۔ کسی قسم کی کوئی تحریر
چھٹی سببے قدوالی گوری لڑکی۔ جوان
اوشنی۔ ج۔ قَرَاطِيسُ۔

الْقِرْطِطُ وَالْقِرْطِطَةُ۔ تھوڑی سی چیز۔
الْقِرْطُفُ وَالْقِرْطُفَةُ۔ چادر۔

قَرَطْلُهُ فِي الْمَاءِ۔ کسی کو پانی میں ڈبونا۔
الْقِرْطُلُ۔ شاخوں یا بانس سے بنی ہوئی
ڈبیا۔ ٹوکی۔ لغت عامیانہ میں ہر ٹوکی
کو کہتے ہیں۔ ج۔ قَرَاطِلُ۔

الْقِرْطَلَةُ۔ گدھے پر لادنے کا بورا، گون۔
الْقِرْطَالَةُ۔ پالان کے نیچے ڈالنے کا کبل یا
خوگر۔ ج۔ قَرَطَالُ۔

قَرَطَمَ قَرَطَمَةً۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو
کاٹنا۔ الطَّائِرُ۔ پرندہ کو کڑکے بیچ
ڈالنا۔

الْقِرْطَمُ وَالْقِرْطَمُ وَالْقِرْطَمُ وَالْقِرْطَمُ
تخم معصفر۔ حب القرم۔ کڑکے بیج۔
الْقِرْطَمَانُ۔ ماش کے مشابہ ایک غلہ کا نام
يَخْفَأُ مَقْرَطَمَةً۔ وہ موزہ جس کے
کناروں پر دوہری پٹی سلی ہوئی ہو۔

قَرَطَ قَرَطَارًا، الْقَرُطُ۔ درخت قرط
کے پتے جمع کرنا۔ الْأَدِيمُ۔ کھال کو
قرط کے پتوں سے دباغت دینا۔

قَرَطَ قَرَطَارًا، ذَلَّتْ کے بعد معزز ہو جانا۔
قَرَطَهُ تَقَرِيْطًا۔ کسی زندہ شخص کی تعریف
یا مذمت کرنا۔

تَقَارَطَا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔
الْقَرُطُ۔ ایک درخت جس کے پتوں سے
کھال رنگی جاتی ہے۔ درخت سلم۔
(جمع ہے اس کا واحد قَرُطَةٌ ہے)

الْقَرَاطُ۔ برگ سلم کا تاج۔ ج۔
قَرَمَ قَرَمَارًا، الْبَابُ۔ دروازہ

کھٹکھٹانا۔ ضرب المثل ہے۔ صَنِ
قَرَمَ بَابًا وَلَبَّحَ وَلَبَّحَ۔ جو دروازہ



کھٹکھٹائے اور اڑ جائے وہ داخل ہو
ہی جانتے ہیں۔ الوجل۔ مارنا۔ قرع
رأسه بالعصا۔ سر پر لاٹھی مارنا۔
صفاً کسی کے نقص و عیب ظاہر
کرنا۔ ساقاً للامير کسی کام کے
لیے خالی ہونا۔ الشئ۔ اختیار کرنا۔
ع بالحق۔ بھیکنے۔ السهم الغایة
تیر کا نشانہ پر لگنا۔ ء امر کوئی معاملہ
اچانک اوپر آ پڑنا۔ سئ۔ ندامت
سے دانت پینا۔
قرع قرعان، فلان کسی پر قسریہ میں
غالب آنا۔ قرع علیہ تیر اندازی میں
کسی شخص کا مار جانا۔
قرع قرعاً وقرعاً دس، المكان کسی
جگہ کا خالی ہونا۔ ماء البیہ کنویں کے
پانی کا ختم ہو جانا۔ الرجل تیر اندازی
میں ہارنا۔ مشورہ قبول کر لینا۔ قرعاً
الرجل۔ سر کے بالوں کا گر جانا۔
قرع فلان کسی کو ڈانٹنا۔ القوم قوم کو
پریشان کرنا۔ الفصیل اونٹ کے
بچہ کی خارش کا علاج کرنا۔ الشعیر
بالوں کو کاٹنا۔
قارعة قرا عاً و مقارعة۔ ایک دوسرے
کے ساتھ قرع اندازی کرنا۔ قارعة فقرعة
اس نے قرع اندازی کی اور جیت گیا۔
قارعة القوم و القارعة قوم نے قسریہ
اندازی کی۔ باہم جنگ کرنا۔ بالرمح
باہم نیزہ بازی کرنا۔
أقرع۔ باز رہنا مشورہ قبول نہ کرنا۔ عنه
باز رہنا۔ المسافر منزل کے قریب
پہنچنا۔ العائض والماتح۔ غوطہ خور
کازمین کی تہ تک پہنچنا۔ الشر نشر
کا جاری رہنا۔ نعلہ۔ جوتے پر پھینکا
پیوند لگانا۔ الحویہ گدھوں کا ایک
دوسرے کو لاتیں مارنا۔ الشئ کسی

چیز کی طاقت رکھنا۔ دارۃ الجوا۔
فرش مکان پر اینٹیں بچھنا۔ فلان
روکنا۔ الی الحق۔ حق کی طرف رجوع
کرنا اور اطاعت کرنا۔ الرجل کسی
کو عمدہ مال دینا۔ الدایۃ بلکجاہما
چوپایہ کو لگام سے روکنا۔ بین القوم
قرع ڈالنا۔
تقرع و تقرع۔ لوٹنا۔ پلٹنا۔ انقرع
عن الامر کسی کام سے باز رہنا۔
عن الحق۔ حق سے باز رہنا۔ تقرع
الجلد۔ کھال کا گنچہ پن کی وجہ سے
چھل جانا۔
انقرع۔ الشئ کسی چیز کو پسند کرنا۔
النار آگ روشن کرنا۔ القوم علی
کذا کسی معاملہ پر قرع اندازی کرنا۔
استقرع الحافر کھر کا سخت ہونا۔
الکشر۔ اچھڑی کارواں اڑ جانا۔
القرع۔ کدو۔ لوکی۔ گھیا۔ واحد قرعہ ہے
القرعۃ۔ اسم مرءہ ہے۔
القرع۔ سفید خارشتی پھنسیاں جو اونٹ
کے بچوں کو نکلتی ہیں۔ گنچ کی بیماری جس
سے سر کے بال گر جاتے ہیں۔ وہ مقام
جو مقابلہ کرنے والوں کی حد کے طور پر
مقرر کیا جائے۔ مسابقت۔ اونٹوں کا
خالی ہارڈ۔ وہ زمین جس میں گھاس کے
علاوہ کوئی جھاڑی وغیرہ نہ ہو۔ خارش۔
القرعۃ۔ ڈھال۔ سپر۔ سر میں گنچہ پن کی
بیماری کی جگہ فراخ پیندے والا توشہ
دان۔ اونٹ سے خالی ہارڈ۔
القرعۃ۔ حصہ۔ قسمت۔ انقاء القرعۃ
قرع اندازی کرنا۔ توشہ دان۔ و
القریعة۔ بہترین مال۔ القریعة
گھریں سب سے اچھی جگہ۔
القرع۔ وہ شخص جس کو نبینہ نہ آئے مشورہ
مننے والا۔ یطهر قرع۔ خراب شدہ

ناخن۔ أرض قرعۃ۔ بجز زمین۔
القارعة رموت قارع قیمت۔ قارعة
الطریق۔ راستہ کا بڑا اور بلند حصہ۔
حادثہ۔ ہلاک کرنے والی آفت۔ ج
قوارع۔ قرعۃ قوارع الدھر۔
زمانہ کے سخت مصائب کا نازل ہونا۔
نحوذ باللہ من قوارع فلان
ہم فلاں کی زبان درازیوں سے پناہ
مانگتے ہیں۔
القوارع۔ اسم مبالغہ۔ ڈھال۔ سخت سنگین۔
رموت قوارع ہے۔
القریع۔ قرعہ انداز۔ قرعہ اندازی میں کامیاب
ہونے والا۔ نیزہ نام کام ہونے والا۔ سردار
نراونٹ۔ فلان قریعی دھڑ۔
فلاں اپنے زمانہ کا ممتاز ہے۔ هو
قریعی الکتیبہ۔ وہ لشکر کا سردار
ہے۔ فصیل قریعی۔ خارش میں مبتلا
اونٹ کا بچہ۔ ج۔ قرعی۔
القریعی۔ بھڑے پانی والا کنواں۔ وہ بکری
جس پر قرعہ اندازی کی جائے۔
القریعی۔ اسم مبالغہ۔ سردار۔
القریعی۔ گنچ۔ جبل أقرع۔ بغیر سبزہ
والا پہاڑ۔ عود أقرع۔ وہ لکڑی جس
کی چھال اتار دی گئی ہو۔ توس أقرع۔
سخت ڈھال۔ قدع أقرع۔ وہ
تیر جس کو ٹھیکری سے رگڑا جائے تاکہ
اس کے خطوط و نقوش ظاہر ہو جائیں
القرع۔ عمدہ فولاد کی تلوار۔ من
الحیات۔ وہ سانپ جس کے سر کے
بال زیادہ زہریلا ہونے کی وجہ سے
گر جائیں۔ رموت قرعۃ۔ ج۔ قرع
وقرعان۔
القرعۃ۔ أقرع کی رموت۔ حادثہ آفت
گھر کا صحن۔ راستہ کا بلند حصہ۔ أرض
قرعۃ۔ وہ زمین جس کی گھاس چرا



دی گئی ہو۔

الْمُقْرِعَاءُ۔ وہ زمین جس کے بیچ میں پیداوار نہ ہو اور اطراف و کناروں پر ہو۔

الْمُقَرَّمُ۔ وہ برتن جس میں گھی یا کھجوریں رکھی جائیں۔

الْمُقَرَّعَةُ۔ کوڑا۔ چابک۔ کھٹکھٹانے کا آلہ۔ جہ۔ مَقَارِعُ۔

الْمُقَرَّمُ۔ مِنْ الْخَيْلِ۔ وہ گھوڑا جس کو لگام سے روکا جائے تو وہ سراٹھائے۔

الْمُقَرَّعُ۔ وہ تیشہ جس سے پتھر توڑا جائے۔

الْمُقَرَّعُ۔ سردار۔

الْقَرَأُ عُولُ۔ راستہ کا محافظ (تاتاری لفظ ہے) اس کی عربی خفیفہ ہے۔

قَرَفَ قَرَفًا رَضً، لِيَعْيَالِهِ۔ اہل و عیال کے لیے کانا۔ عَلَى الْقَوْمِ۔ قوم کے خلاف بغاوت کرنا۔ اور جھٹلانا۔

الْوَجُلُ جھوٹ بولنا اور گڑ بڑ کرنا۔

الشَّيْءُ کسی چیز کو جھیلنا۔ مخلوط کرنا۔

وَقَرَفَ فَلَانًا بَكَدًا۔ کسی پر اتمام یا عیب لگانا۔ الْقَوِيحَةُ۔ زخم کو جھیلنا۔

قَرَفَ قَرَفًا رَسً، فَلَانُ الْمَرَضِ۔ مرض کے قریب ہونا۔

قَارَفَهُ مُقَارَفَةً وَقَرَفًا۔ قریب ہونا۔

قَارَفَ الذَّنْبُ۔ گناہ میں آلودہ ہونا۔ أَقْرَفَ لَهُ۔ کسی کے قریب ہونا۔ مخلوط ہونا۔ أَقْرَفَهُ۔ کسی کو برائی سے یاد کرنا۔ أَقْرَفَ بِهِ۔ کسی کے لیے

تہمت کے اسباب پیدا کرنا۔ الْجَوْبُ الصِّحَاحِہ۔ خارش کے مریض کا تندرسنوں کو مبتلا کرنا۔

تَقَرَّفَ الْجَوْحُ۔ زخم کا چھل جانا۔

رَأْفَتَوْفَ۔ کسب کرنا۔ حاصل کرنا۔ الذَّنْبُ گناہ کا ارتکاب کرنا۔ الْمَالُ۔ مال حاصل کرنا۔ عَرَبُ کا محاورہ ہے کہ

قَرَفْتُهُ بِالْأَمْرِ فَإِنْ قَرَفَ بِهِ۔ میں نے اس کو عیب لگایا اور وہ عیب دار ہو گیا۔

الْقَرَفُ۔ انار کے چھلکوں سے دبخت دیا ہوا چمڑے کا برتن۔ گہرا سُرخ۔ جہ

قَرَفٌ وَقَرُوفٌ۔

الْقَرَفُ۔ درخت کی چھال۔ ہر چھال قَرُوفٌ کہلاتی ہے۔ قَرُوفُ الرُّمَّانِ۔ انار کا

چھلکا۔ روٹی کا وہ چھلکا جو تنور میں لگ کر رہ جائے۔ زہی سے اکھاڑی ہوئی

چیز ناک پر لگی ہوئی خنک ناک کی رطوبت۔ جہ۔ قَرُوفٌ۔ فاصد قَرُوفَةٌ

الْقَرُوفُ خَلِيقٌ لَانَقٍ۔ هُوَ قَرُوفٌ بَكَدًا۔ وہ اس کے لائق ہے۔

الْقَرُوفُ۔ مرضِ کالوث آنا۔ منساری تہمت بیماری کی چھوت پھیلنا۔ وَالْقَرُوفُ خَلِيقٌ لَانَقٍ۔ هُوَ قَرُوفٌ أَوْ قَرُوفٌ بَكَدًا۔ وہ اس کا مستحق ہے۔ الْقَرُوفُ

نہایت سُرخ۔ بولا جاتا ہے۔ أَرَاكَ أَحْمَرَ قَرَفًا۔ مجھے تو نہایت سُرخ دکھائی دیتا ہے۔

الْقَرُوفَةُ۔ کمانی چھلکا۔ انار کے چھلکے۔ دار چینی کی ایک قسم جس کو سچ قلمی کہتے ہیں۔

تہمت۔ وہ شخص جس پر تہمت لگائی جائے۔ جیسے هُوَ قَرَفَتِي۔ یہ وہ شخص ہے جس پر میں تہمت لگاتا ہوں

بَنُو فُلَانٍ قَرَفَتِي۔ فلاں لوگ وہ ہیں جن کے پاس میرا مطالبہ ہے۔

الْقَرُوفُ۔ بہت ظلم و بغاوت کرنے والا۔ توشہ دان۔ جہ۔ قَرُوفٌ وَقَرُوفٌ۔

الْقَرَفِيُّ وَالْمُقَرَّفُ۔ وہ شخص جس کا رنگ سُرخ ہو۔ مُقَرَّفٌ حَقِيرٌ كَسِينٌ۔ وَجْهُ مُقَرَّفٌ۔ بد صورت چہرہ۔

الْأَقْرَفُ۔ نہایت سُرخ۔

الْمُقَرَّافَةُ۔ درخت کی چھال۔

الْمُقَرَّفُ۔ چھلے ہوئے درخت کی وہ جگہ جہاں سے چھال اتاری گئی ہے۔

الْمُقَرَّافُ۔ بہت گنہگاروں کا ارتکاب کرنے والا۔ رَجُلٌ مُقَرَّدٌ۔ دُہلا پتلا نازک آدمی۔

قَرَفَصَهُ قَرَفَصَةً۔ کسی کو جمع کرنا اور اس کے ہاتھ اس کے پاؤں کے نیچے باندھنا۔

تَقَرَفَصَتِ الْعَجُوزُ۔ بڑھیا کا کپڑوں میں لپٹنا۔

الْقَرَفَصِيُّ وَالْقَرَفَصَاءُ وَالْقَرَفَصَاءُ اُکڑوں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے پاؤں کے گرد حلقہ باندھنا اور پیٹ کو رانوں سے بالینا۔ قَعَدَ الْقَرَفَصِيُّ اُکڑوں بیٹھنا۔

الْقَرَفَصُ۔ بڑا طاقتور۔

الْقَرَفَصَةُ۔ لٹیرے۔

قَرَفَطَ الرَّجُلُ۔ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلنا۔

إِقْرَفَطَ۔ سکرنا۔ سٹمنا۔

الْمُقَرَّفَلُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ۔ وہ کھانا جس میں لوٹکیں ڈالی گئی ہوں۔

قَرَفَ قَرَفًا رَسً، يَفْلَانُ۔ کسی کو دھوکا دینا۔ قَرَفَتِ الدُّجَاجَةُ۔ مرغی کا گڑ گڑانا اور اپنے چوزوں یا انڈوں کو پروں میں جمع کرنا۔

قَرَفَ قَرَفًا رَسً، بَرَابَرِ زِمْنٍ۔

الْقَرَفُ۔ ردی جڑ۔ عادت۔ کمترین لوگ۔

جماعت۔ قَرَفٌ مِنَ النَّاسِ۔ لوگوں کی ایک جماعت۔ جہ۔ أَقْرَأُ۔ وَالْقَرَفُ وَالْقَرَفِيُّ۔ ہمارے جگہ۔ برابر زمین۔

الْقَرَفُ انْ وَالْقَرَفُ انْ۔ سنجاب۔ ایک نرم اون والا جانور جس کی پوستیں نہایت اعلیٰ ہوتی ہے۔

قَرَفَرُ قَرَفَرَةً۔ الْبَعِيْرُ۔ اونٹ کا بلبلانا۔

قَرَفَتِ الْحَمَامَةُ اَو الدُّجَاجَةُ



کبوتر یا مرغی کا آواز نکالنا۔ البَصْلُ
پیٹ کا گڑگڑ کرنا۔ الرَّجُلُ فِي
صَحْبِهِ۔ قفقه لگانا۔ الشَّرَابُ
فِي حَلْقِهِ۔ پانی وغیرہ کا حلق میں
آواز دینا۔
القَرْقَرَةُ۔ زور کا قفقه۔ کبوتر کا آواز۔
چہرے اور چہرے کے متعلقات کی
جلد۔ والقَرْقَرَةُ۔ نرم اور نشیبی
سرزمین۔ جہ۔ قَرَارٌ۔
القَرْقَارُ۔ اونٹ کا ببلانا۔
القَرَارِيُّ وَالْقَرَارِيُّ۔ خوش نواحدی
خوان۔
القَرَارَةُ۔ بہت بولنے والی عورت۔
والْقَرَارَةُ۔ ببلانے کے وقت
اونٹ کے جھاگ۔ الْقَرَارَةُ۔
لمبی گردن کا کچ کا پیالہ۔
القَرَارِيُّ۔ لمبی کشتی۔ جہ۔ قَرَارِيٌّ۔
قَرَارٌ الْكَلْبُ وبہ سکتے کو قَرَارُش
کی آواز سے بلانا۔
القَرَارِيُّ۔ پسو کے مانند ایک جانور۔
القَرَارِيُّ۔ سخت میدان۔
قَرَارٌ بِالْجَرِّ۔ کتے کے پتے کو بلانا۔
القَرَارِيُّ۔ کتے کا پتہ۔ جہ۔ قَرَارِيٌّ۔
قَرَارٌ قَرَارَةٌ۔ دھماکہ پیدا کرنا۔ دو
سخت چیزوں کو باہم ٹکرا کر گونج یا سخت
آواز پیدا کرنا یہ عامیانہ لغت ہے،
قَرَقَتْ قَرَقَةً۔ مِنَ الْبُرْدِ۔ سردی
سے لرزنا۔ قَرَقَةُ الْبُرْدِ۔ جاڑے
کا لرزہ پیدا کرنا۔ الرَّجُلُ فِي الضَّحِكِ
وَالْحَمَامِ فِي الْهَدْيِ۔ آدمی کا
شدت سے ہنسنا اور کبوتر کا زور
سے غمخون کرنا۔
القَرَقَةُ۔ شراب۔ بھنڈا پانی۔ والقَرَقَةُ
ایک چھوٹا پرندہ ہے۔
القَرَقُوتُ۔ دہم شراب۔ دِيْكُ قَرَقُوتُ

بلند آواز والا مرغ۔
القَرَقُلُ وَالْقَرَقُلُ۔ وہ قمیص یا کپڑا جس
میں آستین نہ ہوں۔ جہ۔ قَرَقِلُ۔
قَرَقَمُ الصَّبِيِّ۔ بچے کو بُری غذا دینا۔
الْمَقَرَقَمُ۔ وہ جو اپنی نشوونما کو نہ پہنچے۔
القَرَقِيَّ۔ ایک سکے والا پانی کا پرندہ۔
قَرَمَ قَرَمًا وَقَرَمًا وَقَرَمًا
دُخِنَ، وَالْقَرَمُ۔ الصَّبِيِّ وَالْبَهْمِ۔
بچے یا جانور کا مھوڑا اٹھڑا کھانا سیکھنا۔
قَرَمَ قَرَمًا دُخِنَ، الشَّيْءُ۔ چھیلنا۔
الطَّعَامُ۔ کھانا۔ الرَّجُلُ۔ گالی دینا
مقید کرنا۔
قَرَمَ قَرَمًا دُخِنَ، إِلَى الدَّحْجِ۔ گوشت
کی خواہش شدید ہونا۔ قَرَمَ إِلَى
لِقَائِهِ۔ اس کی ملاقات کا شدید
مشتاق ہونا۔
قَرَمَهُ۔ کھانا سکھانا۔ قَرَمَ وَالْقَرَمُ۔
الْفَحْلُ۔ نر کو سواری اور کام میں نہ
لینا تاکہ وہ سائڈ ہو جائے۔
اسْتَقَرَمَ الْبَكْرُ قَبْلَ آوَانِهِ۔ نر کا
قبل از وقت سائڈ ہو جانا۔
الْقَرَمُ۔ اونٹ کی ناک پر علامت۔ جوئے
کے تیر پر نشان۔ سائڈ۔ بڑا سردار۔
جہ۔ قَرَمٌ۔
الْقَرَمَةُ وَالْقَرَمَةُ۔ اونٹ کی ناک
سے کاٹا ہوا چمڑے کا ٹکڑا۔ الْقَرَمَةُ وَ
الْقَرَامُ۔ وہ جگہ جہاں سے اونٹ کی
ناک کی کھال کاٹی جائے۔ الْقَرَامُ۔
سُرخ پردہ یا باریک کپڑا۔
الْقَرَامَةُ۔ اونٹ کی ناک سے کاٹی ہوئی
کھال کا ٹکڑا۔ روٹی کا وہ ٹکڑا جو تھوڑی
لگا ہوا رہ جائے۔ عیب۔ اونٹ کی
چھاتی۔
الْقَرَمُ مِنَ الْجَمَالِ۔ وہ اونٹ جس کو
ابھی تک رسی سے نہ باندھا ہو۔ ناک

پرداغ رکھنے والا اونٹ۔ مُونْت۔
قَرَمَاءُ۔ جہ۔ قَرَمٌ۔
الْقَرَمُ۔ ایک بوٹی ہے جو سفید اور موٹی
ہوتی ہے۔
قَرَمَدٌ قَرَمَدًا۔ الکتّاب۔ کتاب کو
باریک اور قریب قریب سطور میں لکھنا۔
(قَرَمَطٌ میں یہ بھی ایک لغت ہے)۔
الشَّيْءُ۔ قَرَمَدٌ سے مزین و ملمع کرنا۔
الْقَرَمَدُ۔ وہ چیز جس سے زینت کے لیے
لمع کیا جائے۔ جیسے زعفران اور گچ
وغیرہ۔ بھیکری۔ پکی اینٹ (کلمہ دخیل)،
الْقَرَمُودُ۔ زرباڑی بکرا۔ پہاڑی بکرے کا
بچہ۔ جہ۔ قَرَامِيْدٌ۔
الْقَرَمِيْدُ۔ پکی اینٹ۔ گچ یا اس طرح کی
زینت کے لیے کوئی مرکب۔ واحد
قَرَمِيْدَةٌ۔ یہ کلمہ بھی دخیل ہے،
الْقَرَمِيْدَةُ۔ پہاڑی بکری۔ جہ۔ قَرَامِيْدٌ۔
الْقَرَمِيْدُ۔ سرخ رنگ۔ عِنْدَ الْأَسَاكِفَةِ
وہ چمڑا جو سُرخ رنگا ہوا ہو۔
الْقَرَمِيْدِيُّ۔ جو قمری رنگ کا ہو۔
قَرَمَشَةٌ۔ فاسد کرنا۔ الشَّيْءُ۔ جمع کرنا۔
الْقَرَمَشُ وَالْقَرَمِشُ وَالْقَرَمِشِشُ۔
مِنَ النَّاسِ۔ لمے چلے لوگ۔ عام و خاص۔
قَرَمَصٌ تَقَرَمَصٌ۔ قمراس میں داخل ہونا۔
الْقَرَامِصُ۔ قمراس بنانا۔
الْقَرَمَاصُ وَالْقَرَمُوصُ۔ وہ گرہا جس کا
پیندا فراخ اور منہ تنگ ہو۔ جس میں
سرمازہ کو گرمی پہنچائی جائے۔ بھوبھل
جس پر روٹی سینکی جائے۔ کبوتر کا
گھونسہ جس میں وہ انڈے دے۔ جہ
قَرَامِصِيٌّ۔ الْقَرَمُوصُ۔ وہ گرہا
جس میں شکاری چھپ کر شکار کھیلتا
ہے۔ زمین میں بنایا ہوا پرندہ کا گھونسہ۔
قَرَمَطٌ قَرَمَطَةً۔ الکتّاب۔ کتاب کی
سطریں قریب قریب اور باریک لکھنا۔

فِي خَطْبِهِ: چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔

الْقُرْمُوطُ: ایک قسم کی مچھلی۔ وہ مٹی یا گوبر کا گولہ جو گوبر یا بناتا ہے۔ جہ: قَرَامِيْطُ: القَرَامِيْطَةُ: شیعوں کا ایک غالی فرقہ ہے اس کا واحد قَرْمِيْطِيٌّ ہے۔

قَرْمَلَهُ: بچھاڑنا۔

الْقَرْمَلُ: ایک بے کنٹے کا کڑور درخت واحد قَرْمَلَةٌ۔

الْقَرْمِلُ: دو کوٹن والا اونٹ۔ جہ: قَرَامِلُ۔

الْقَرَامِلُ وَالْقَرَامِيْلُ: مِنَ الشَّعْرِ وَالصُّوْفِ: بال یا اون کا وہ موباف جو عورتیں اپنے بالوں سے ملا کر باندھتی ہیں۔

قَرْنٌ قَرْنًا (رض): الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھنا۔

مَلَانَا: الثَّوْرَيْنِ: جوئے میں بیل جو تنہا: الْبَعِيْرَيْنِ: ایک رسی میں دو اونٹوں کو باندھنا۔

قَرْنٌ قَرْنًا (ان): الْقَرْنُ: گھوڑے کے پچھلے قدموں کا اگلے قدموں کے نشانات قدم پر پڑنا۔ بَيْنَ الشَّيْءِ وَالشَّيْءِ: دو چیزوں کو جمع کرنا۔

قَرْنٌ قَرْنًا (س): دُونِ اِبْرَوْنِ کا ملا ہوا ہونا۔ صفت: أَقْرَنُ ہے۔ قَرْنٌ ذُو الْقَرْنِ: بڑے سینک والا ہونا۔

قَرْنَهُ: جمع کرنا۔ باندھنا۔ قَرْنَتِ الْأَسَارَى فِي الْجَبَالِ: قیدی رسیوں میں باندھ گئے۔

قَارَنَهُ قَرَانًا وَمُقَارَنَةً: کسی کے ساتھ اور متصل رہنا۔

أَقْرَنَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ: دو چیزوں کو جمع کرنا (قَرْنٌ زیادہ فیصح ہے) الرَّجُلُ دوتیر پھینکنا۔ ایک رسی میں دو قیدیوں کو لانا۔ سینگ والے مینڈھے کی

قربانی کرنا۔ ہر رات کو ایک سلائی سرمر لگانا۔ الدَّمُ فِي الْعَوْقِ: خون

کارگ میں زیادہ اور پر جوش ہونا۔

أَفَاطِيْرُ وَجَدِ الْعَلَامِ: ڈاٹھی نکلنے کے وقت لڑکے کے چہرے پر باریک

پھنسیاں نکلنا۔ السَّمَاءُ: بارش جاری رہنا۔ کسی کے برابر کا ہونا

کسی کو ایک ہمار میں دوا ونٹ دینا۔ عَيْنُ الطَّرِيقِ: راستہ سے ہٹنا

۔ کحلی غَرِيْمَةٌ: قزم دار پر تنگی کرنا۔ أَقْرَنْتِ الثَّوْرِيَا: بلندی میں تریا سے

متصل ہونا۔ الدَّمْلُ: پھوڑے کا پکنا اور پھوٹنے کے نزدیک پہنچنا۔

لِلْأَمْرِ: کسی چیز کی طاقت رکھنا اور اس پر قادر ہونا۔ عَنَهُ: کسی چیز سے عاجز ہونا۔

تَفَارَنَ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔

اِقْتَرَنَ: الشَّيْءُ يُغَيِّرُ: کسی چیز کے ساتھ متصل ہونا۔

اِسْتَقْرَنَ: الدَّمْلُ: پکنا اور پھوٹنے کے قریب ہونا۔ الدَّمُ فِي الْعَوْقِ:

خون کارگ میں زیادہ ہونا۔ الرَّجُلُ لِلْأَمْرِ: کسی کام کی قدرت رکھنا۔

لِلْفُلَانِ: کسی کے برابر تہ والا ہونا۔ الْقَرْنُ: سینگ۔ الْقَرْنُ فِي الْإِنْسَانِ:

انسان کے سر کی وہ جگہ جہاں جانور کے سینگ اگتے ہیں۔ قَرْنُ الشَّمْسِ:

آفتاب نکلنے وقت جو کرنیں ظاہر ہوں الْقَرْنُ مِنَ الْمَطَرِ: بارش کا

نور سے پڑھنا۔ هُوَ عَلَى قَرْنِي: وہ میرا ہم عمر ہے۔ الْقَرْنُ: ایک

سوسال کا عرصہ۔ ایک زمانہ کے لوگ ایک امت کے بعد دوسری امت۔

زمانہ کا وقت۔ جہ: قُرُونٌ۔ الْقَرْنُ

چھوٹا پہاڑ۔ پہاڑ کی چوٹی۔ قلعہ۔ عورت کی زلفت۔ الْقَرْنُ مِنَ الْجَرَادِ:

مڈی کے سر میں جو دو بال ہوتے ہیں۔

درخت کی چھال سے بٹی ہوئی رسی۔

بال یا اون کا مجموعہ۔ جہ: قَرَانٌ وَ قُرُونٌ۔ الْقَرْنُ مِنَ الْقَوْمِ: قوم

کا سردار۔ مِنَ السَّيْفِ وَ نَحْوِهِ: تلوار وغیرہ کی دھار۔ قَرْنُ الشَّيْطَانِ:

وَقَرْنَانُهُ: شیطان کے تابع لوگ۔ وَجِيدُ الْقَرْنِ: گینٹا۔ ذُو الْقَرْنَيْنِ:

اسکندر شاہ مقدونیہ کا لقب۔ مَنذَابُ مَالِ السَّمَاءِ: کالقب۔

الْقَرْنُ: ہمسہ مقابل۔ شجاعت یا علم میں نظیر۔ جہ: قُرُونٌ وَأَقْرَانٌ۔

الْقَرْنُ: جہ: أَقْرَانُ: کسی کے ساتھ ملا ہوا۔ وہ رسی جس سے دوا ونٹ باندھے

جائیں۔ تَرَكَشَ: جہ: قَرَانٌ۔ تلوار۔ تیر۔

الْقَرَانُ: وہ رسی جس سے قیدی کو باندھا جائے۔ رسی جو بیل کی گردن میں باندھی

جاتی ہے۔ ادنٹ کو کھینچنے کی رسی۔ جہ: قُرْنٌ۔

الْقُرْنَةُ: ہر چیز کا بلند کنارہ۔ تلوار یا نیزہ کی دھار۔ جہ: قُرْنٌ۔

الْقَارِنُ: فاعل۔ رَجُلٌ قَارِنٌ۔ وہ شخص جس کے پاس تلوار اور تیر دونوں

ہوں۔ الْقَرَيْنُ: متصل۔ ملا ہوا۔ مصاحب۔ قَبِيلُ خَاوند: نفس۔ جہ: قَرْنَاءُ۔ الْقَرَيْنُ:

الْعَيْنُ: سرمہ والی آنکھ۔ الْقَرَانِي: متصل۔ تانت جو اونٹ کی کھال

سے بنائی گئی ہو۔ جَاءُوا قَرَانِي: وہ جمع ہو کر آئے۔

الْقَرِيْنَةُ: قریب کی ٹونٹ۔ زوجہ۔ نفس۔ قَرِيْنَةُ الْكَلَامِ: وہ چیز جو مراد و



مقصود کو متعین کرے۔ ج۔ قَرَأْنٌ
دُورٌ قَرَأْنٌ۔ ایک دوسرے کے
بالمقابل مکانات۔

الْقَرَأْنُ۔ کا پچ کی شیشی۔
الْقَرُونُ۔ کھانے والے وقت ایک دم دو نفعے
کھانے والا۔ وہ حیوان جس کے پچھلے کھڑ
لگے کھڑوں کے نشانات پر پڑیں۔ بیٹھنے
میں دونوں گھٹنوں کو ملائے والی اونٹنی۔
وَالْقَرُونَةُ۔ نفس۔

الْأَقْرُونُ۔ جس کے سینگ ہوں۔ ملی ہوئی
ابروؤں والا۔ مؤنث قَرْنَاءُ۔ حِیْثُ
قَرْنَاءُ۔ ایک قسم کا سانپ جس کے سر میں
دو ابھار ہوتے ہیں۔

الْقَرَبِيَاءُ۔ لوبیا۔
الْمُقَرَّنُ۔ بیلوں کے کندھوں پر رکھنے
کا جوا۔

الْمُقَرَّنُ۔ دھاردار۔ ابھار والا۔ وہ چیز جس
کے لیے سینگ کے مشابہ کوئی چیز
بنائی جائے۔

الْمُقَرَّنَةُ۔ مُقَرَّنٌ کی مؤنث۔ ایک دوسری
سے متصل چھوٹی پہاڑیاں۔

الْقَرْنَبِيُّ۔ لمبے پروں والا گربلا کے مشابہ

ایک کیرا۔ عرب میں ضرب المثل ہے کہ
الْقَرْنَبِيُّ فِي عَيْنِ أَصْحَابِ حَسَنَةٍ۔

قرنی جیسا بد صورت بھی اپنی ماں کی نظر

میں حسین ہے۔ قَرْنَسٌ و قَرْنَسٌ

الْبَارِزِيُّ۔ باز کو کپڑے کے بعد اس کی

آنکھیں سی دینا۔ قَرْنَسٌ الدِّيكُ

مخے کا اپنے مقابل کی جنگ سے

بھاگ جانا۔

الْقُرْنَسُ وَالْقُرْنَسُ۔ پہاڑ کے آگے کا
نکلا ہوا حصہ۔ کا تنے کا ٹکڑا۔ سَقْفٌ

مُقَرَّنٌ۔ وہ چھت جو زمین کی ہیئت
پر بنائی ہوئی ہو۔

الْقَرْنُفَةُ وَالْقَرْنُفُولَةُ۔ ایک
خوشبودار باغی بوہ۔

الْمُقَرَّفُلُ۔ مِینِ الْأَطْعِمَةِ۔ لونگ ڈالا
ہوا کھانا۔

قِرَّةٌ قَرَهَاءُ س، تَقَرَّةٌ جِلْدَةٌ۔ مار کی
زیادتی سے کھال کا چھل جانا یا نیل پڑ

جانا۔ داد کی کثرت کی وجہ سے جلد کا
سورخ دار ہونا۔ صفت اَقْرَا۔

مؤنث قَرَهَاءُ۔ ج۔ قُرَا۔

الْقَارِءُ۔ (فاعل) مِینِ الْجِلْدِ۔ خشک
کھال۔

قَرَأَ يَقْرُو قَرَوًی۔ اَلْبَیْءُ۔ کسی کا ارادہ
کرنا۔ بِالْمُحِبِّ فَلَانَا۔ کسی کے نیزہ

مارنا۔ صفت قَارٍ۔ ج۔ قَرَاءٌ و
قَارُونٌ۔ مؤنث قَارِبَةٌ۔ ج۔ قَوَارٍ و

قَارِيَاتٌ۔

قَرَى وَاخْتَرَى وَاِسْتَقْرَى۔ الامر۔
تلاش کرنا۔ اِسْتَقْرَى الدَّمْلُ۔ دُنبُل

میں پیپ پڑنا۔

اَقْرَى اَقْرَاءً۔ پیٹھ کے درد کی شکایت ہونا۔
الْقَرَا۔ پیٹھ۔ ج۔ اَقْرَاءُ وِقِرَوَانٌ۔

لوکی یا کدو۔

الْقَرُو۔ نہر کی طرح لمبا حوض جس سے اونٹ
پانی پئیں۔ زمین جو طے نہ کی جا سکے۔

کو لھو کی وہ نالی جس سے تیل ٹپکتا ہے
چھوٹا برتن۔ کھجور کے درخت کا تہ جس

کو کھود کر بنیڈ بناتے ہیں۔ لکڑی کا پیالہ
بائس جو کھوکھلا ہو۔ وہ چیز جو ایک ہی

طریقہ پر ہو۔ محاورہ ہے کہ تَرَكَتُهُمْ
قَرُوًّا وَاِحْدًا۔ میں نے ان کو ایک

ہی طریقہ پر چھوڑا۔ قَصِيْدَتَانِ عَلٰی
قَرُوٍّ وَاِحْدٍ۔ ایک ہی ردی پر دو

قصیدے۔ تَرَكَتِ الْاَرْضُ قَرُوًّا۔
بارش نے زمین ایک طبقہ بنا دیا۔

اَصْبَحَتِ الْاَرْضُ قَرُوًّا وَاِحْدًا۔

زمین کی سطح کا پانی میں چھپ جانا۔ ج۔
قَرُوًّا وَاَقْرَاءُ وَاَقْرَدُ قَرِيًّا۔

الْقَرُوُّ وَالْقَرُوَّةُ۔ خصیتین کی کھال کی
کچھاوٹ۔ قَرُوَّةُ الدَّائِسِ۔ سر کا

کنارہ۔

الْقَرُوُّ وَالْقَرُوَّةُ وَالْقَرُوَّةُ وَالْقَرُوَّةُ۔
کتے کے پانی پینے کا برتن۔

الْقَرَوَاءُ۔ عادت۔ کُونُ نَاقَةٍ قَرَوَاءُ۔
لمبی کوبان والی ناقہ۔ جَمَلٌ اَقْرَى

نہیں کہا جاتا۔

الْقُرَوَانُ۔ کمر۔ وسط۔ ج۔ قُرَوَانَاتٌ۔
الْقُرَوَانِيُّ۔ خصیتین کی کھال کی کچھاوٹ

کا مریض۔

الْقُرَوِيُّ۔ عادت۔ رَجَعَ اِلَى قُرَوَائِهِ۔
اپنے پہلے طریقہ پر لوٹ جانا۔

الْقَرِيَّةُ۔ ہر چیز جو ایک ہی طرز پر ہو۔
قَرِيٌّ الْقَصِيْدَةُ۔ قصیدہ کی ردی۔

الْمُقَرِّيُّ۔ ٹیوں کا مربا اونچا حصہ۔ ج
مَقَارٍ۔

الْمُقَرِّيُّ۔ لمبی پیٹھ والا۔ سَاقٌ
مَقْرُوَّةٌ۔ بکری جس کے سر پر دو شاخ

لکڑی لگا دیتے ہیں تاکہ اپنا دودھ نہ
پنی سکے۔

قَرَى يَقْرِي قَرِيًّا وِقَرَاءً۔ الضَّيْفُ
مہمان داری کرنا۔ قَرِيًّا وِقَرِيًّا۔ الماءُ

فِي الْحَوْضِ۔ پانی کو حوض میں جمع کرنا۔
الْبَعْبُورُ كُلُّ مَا اجْتَزَا اَوْنُتًا

جگالی کرنے والے جانور کا جگالی کو چڑے
میں جمع کرنا۔ الْجَوْرُ۔ بھوڑے کا

بھوٹنا۔ اَلْمَدَاةُ فِي الْجَوْرِ۔ پیپ
کا جمع ہونا۔ قَرَى فِي شَيْءٍ قَهْ

بَجُورَةً۔ اپنے جڑے میں اخروٹ
چھپالیا۔ قَرَى يَقْرِي قَرِيًّا و

قَرِيًّا وِقَرِيًّا وَاِسْتَقْرَى۔
اَلْبِلَادُ۔ شہروں کو تلاش کرنا۔ گھومنا۔

أَقْرَىٰ لِقَرَاءٍ كَانُوا كَوَافِرًا - الشَّيْءُ
کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اصرار کرنا - و
اسْتَقْرَىٰ - منیافت طلب کرنا -

إِقْتَرَىٰ - معافی طلب کرنا - الصَّيْفُ -
مہانداری کرنا - الْبِلَادُ - شہر کی
جستجو کرنا اور ان میں گھومنا - اقترى
فَلَا تَأْتِيهِمْ - تلاش کرنا -

الْقَرَىٰ - وہ کھانا جو مہمان کے سامنے پیش
کیا جائے - وہ پانی جو حوض میں جمع کیا
جائے -

الْقَرْيَةُ وَالْقَرْيَةُ - جائداد - بڑی بستی -
جماعت و گروہ - ج - قَرْيٌ وَقَرْيٌ
اس کی طرف نسبت قَرْيٌ وَقَرْيٌ
ہے - قَرْيَةُ الْعَمَلِ - چوٹیوں کا
مٹی کا گھر - قَرْيَةُ الْأَنْصَارِ - مدینہ منورہ
الْقَرْيَتَانِ - مکہ معظمہ اور طائف -

الْقَرْيَةُ - گاڑھا دودھ ٹیلہ کی جانب سے
باغ میں جانے والی پانی کی نالی - پانی
کی چھوٹی نالی - ج - أَقْرِيَّةٌ وَأَقْرَاءُ
وَقَرْيَانِ -

الْقَرْيَةُ - لاشی، چوٹی کا گھر - بادبان کی
وہ لکڑی جو صرنا اوپر سے رکھی جاتی
ہے - ج - قَرَايَا -

الْقَارِيَةُ (دفاع) گاؤں کا ساکن - جَاءَ
كُلُّ قَارٍ وَبَا - ہر شہر اور دیہات کا
ساکن آیا -

الْقَارِيَةُ - قاری کی مونت ہے - لوگوں
کے مجمع سے بھرا ہوا مکان - تلوار کی دھا
نیزہ کا زیریں یا بالائی حصہ - ج - قَوَارٍ
قَوَارِي الدُّنْيَا - خدا کے امین اور شہداء
وَالْقَارِيَةُ - ایک پرندہ جس کی
ٹانگیں چھوٹی، چونچ لمبی اور پیٹھ سبز
ہوتی ہے - ج - قَوَارٍ وَقَوَارِي -

الْقَارَاةُ - وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہوں -
ج - قَارِيَاتٌ -

الْمَقْرَى وَالْمَقْرَاةُ - وہ جگہ جہاں بارش
کا پانی جمع ہو جائے -

الْمَقْرَى وَالْمَقْرَاةُ - مہانوں کی میزبانی
کرنے والا - بہت منیافت کرنے والا -
مَوْنَتٌ مَقْرَاةٌ وَمَقْرَاءٌ - الْمَقْرَى
وَالْمَقْرَاةُ - وہ پیالہ جس میں مہمان
کو کھانا پیش کیا جائے - ج - مَقَارٍ
الْمَقَارِي - ہانڈیاں -

قَزَزَ كَزَزًا (ض) کودنے کے لیے جسم کو
سیکڑنا - كَرَدْنَا - قَزَزْنَا نَفْسِي وَ
قَزَزْتُ عَنْهُ نَفْسِي - میرے نفس
نے اس کو مکروہ اور بُرا جانا - قَزَا
وَتَقَزَّيْنِ مِنَ الدَّنَائِسِ وَكُلِّ مَا
يُسْتَقْدَرُ وَيُسْتَحْبَبُ - نفرت کرنا
بچنا - مکروہ جانا -

الْقَزَزُ - ریشم کا کوبا - دَوْدُ الْقَزَزِ - ریشم
کا کیڑا - ج - قَزَزْنَا (مکروہ) (جیل ہے)
الْقَزَزُ وَالْقَزَزُ وَالْقَزَزُ وَالْقَزَزُ
مکروہ چیز سے بچنے والا - عرب کا محاورہ
ہے - مَا فِي طَعَامِهِ قَزَزٌ وَلَا قَزَزٌ
لَا قَزَزَ - اس کے کھانے میں کوئی
قابل نفرت چیز نہیں ہے -

الْقَزَاسُ - بڑا اڑدھا - الْقَزَا (فاعل)
شیطان -

الْقَزَاوَنَةُ - چھوٹی شیشی - طشت -
الْقَزَاسُ - تاجر ریشم - ریشم کے کیڑوں کی
پرورش کا ماہر (نعت عامیانہ)

قَزَزَهُ قَزَزًا (ض) ہانڈی میں
مصلحہ ڈالنا - الشَّيْءُ - بلند ہونا -
قَزَزًا وَقَزَزَانًا - الْقَزَزُ - جوش
سے ہانڈی کے پانی کا بلبے دینا -

قَزَزَهُ قَزَزًا (ض) قَزَزَهُ - الْقَزَزُ
ہانڈی میں مصلحہ ڈالنا - قَزَزَهُ
الْحَدِيثُ - بات کو زینت دینا اور
بلا کوئی جھوٹ ملائے اس کی تکمیل کرنا -

قَزَزَهُ الشَّجَرُ - درخت کی جڑ میں
نشوونما کے لیے پیشاب ڈالنا -

تَقَزَّزَ - النَّبَاتُ وَالشَّجَرُ - نباتات
یا درخت میں بہت سی شاخیں پھوٹنا -
الْقَزَزُ - کتے کا پیشاب - مصلحہ - قَوْسٌ
قَزَزٌ وَقَوْسٌ قَزَزٌ - آسمان کی
نیرنگی - دھنک - قَزَزٌ کو اگر
قَزَزَ حَتَّى تَقْدِرَ پر لیا جائے، تو
منصرف ہوگا اور اگر علم معدول کی
تقدیر پر لیا جائے تو غیر منصرف ہوگا -
نیز اس کو قوس سے جدا کر کے استعمال
نہیں کیا جاسکتا - چنانچہ تَأَمَّلْ
قَزَزَ مَا أَبَيْنَ قَوْسَهُ كَمَا جَزَزَ
نہیں -

الْقَزَزُ - مصلحہ - تخم پیاز - سانپ کا پاخانہ
ج - أَقَزَا -

الْقَزَزَةُ - قوس قزح کی ایک لکیر - ج -
قَزَزَ -

الْقَزَزُ - مصلحہ فروش -

الْقَزَزُ (دفاع) سَعَوْقًا زَزَ - مہنگا
بھاؤ - مَوْنَتٌ قَارِضَةٌ - ج - قَوَارِزُ -
قَوَارِزُ الْمَاءِ پانی کے بلبے -

التَّقَارِزُ - مصلحہ کے اجزاء -

الْمَقْرَحَةُ مصلحہ رکھنے کا برتن -

قَزَعَ قَزَوَعًا (ض) دیر کرتا - الطَّبِيُّ -
برن کا خوف زدہ ہو کر بھاگنا (احساند
میں سے ہے)

قَزَعَ الرَّسُولُ إِلَيْهِ - کسی کی طرف قاصد
بھیجنا - الْفَرَسُ - گھوڑے کو دوڑانے
کے لیے تیار کرنا - الشَّارِبُ - مٹیوں
کا کاٹنا - الْفَرَسُ - گھوڑے کا تیسرہ
دوڑنا - رَأْسُهُ - سر کو موڑنا، اور
اس کے آس پاس کا حصہ باقی رہ جانا -
قَزَعَهُ أَقْرَعًا لِلْأَمْرِ - کسی کام کے
لیے خالی کر دینا اور کسی کام میں نہ لگانا -



الْقِسِيُّ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَهَوْدَرِهِم
الْقِسَّةُ جَهْوَةٌ كَأُولِ
الْقُسُوسَةِ وَالْقَيْسِيَّةُ - پوری کا عمدہ

یا حالت -

قَسَبَ قَسْبًا (ض) المَاءُ پانی کا بہہ
جانا - اششس سورج کا چھپنا
شروع ہونا -

قَسَبَ قُسُوبًا وَقُسُوبَةً (ك) الشَّيْءُ
سخت ہونا -

الْقَسْبُ سخت بھٹوس خشک کھجور جو
منہ میں ریزہ ریزہ ہو جائے - واحد

قُسْبَةٌ

الْقُسَايَةُ رَدِي كَهَجَرٍ

الْقُسُوبُ - موزہ

الْقَسْبُ وَالْقَيْسِيَّةُ سِرِّجِيٌّ مَضْبُوطٌ
اور طویل ہو -

قَيْسِيَّةُ الْمَاءِ پانی کا آواز کے ساتھ ہینا
قَسَمَ قَسَامَةً وَقُسُوبَةً (ف) سخت

ہونا - الْحَيْلُ رَسِيٌّ بَيْنَا
قَاسِدَةً سختی اور خشکی کے ساتھ معاملہ کرنا

الْقَاسِيَةُ وَالْقَسَامُ وَالْقُسُوبُ سخت
بھٹوس قُوبٌ قَاسِيَةٌ گارھا کپڑا

رُصْمَةٌ قَاسِيَةٌ سخت اور مضبوط نیزہ -
قَسَرَ قَسْرًا (ض) وَاقْتَسَدَ عَلَى الْأَمْرِ

کسی پر جبر کرنا خلاف مرضی مجبور کرنا -
قَسَّوَرَ الرَّجُلُ - مَمر ہونا - الْبَيْتُ سَبْرِي

کا بکثرت ہونا
الْقُسُورُ وَالْقُسُورَةُ غَالِبٌ شَيْءٌ

مضبوط بہادر لڑکا جو - قَسَاوَرُ
وَقَسَاوَرَةٌ الْقُسُورَةُ رات کا

اکثر حصہ ایک میدان علاقہ کی سبزی -
جو قُسُورٌ

قَسَطَ قَسَطًا وَقُسُوطًا (ض) حق سے
تجاوز کرنا حق کے خلاف کرنا صفت
قَاسِطٌ ہے جو قَاسِطٌ قَاسِطُونَ

قَسَطَ قَسَطًا (ض) وَأَقْسَطَ
الْوَالِي عَادِلٌ هُونًا بُولَا جَاتَا هُوَ

أَقْسَطَ فِي حُكْمِهِ وَأَقْسَطَ بَيْنَهُمْ
وَالْيُحْهِمُ دَانَسَاتٌ كِيَا وَ

أَقْسَطَتِ الْيُحْيُ الْعَبْدَانِ هُوَا
کا لکڑیوں کو خشک کر دینا -

قَسِطَتْ قَسَطًا (س) الْعَنْقُ گردن
کا خشک ہونا - الدَّائِيَةُ جانور کی

ٹانگیں سیدھی ہونا قُسُوطًا الْوِطَامُ
لاغری سے بڑیوں کا خشک ہونا -

قَسَّطَ الشَّيْءَ يَتَفَرَّقُ كَرْنَا - الْأَعْدَاْسُ
پوروں کے درمیان برابر مقررہ فاصلہ

چھوڑنا - الدُّيْنُ قَرْنٌ كِ قَسَطِينَ
مقرر کرنا بولاجاتا ہے قَسَطُ الْخَوَاجِرِ

عَلَيْهِمْ حُدُ الْمَالِ بَيْنَهُمْ ان کے
درمیان مال اور محصول کی قساطر مقرر

کی گئی ہیں قَسَّطَ عَلَى عِيَالِهِ اہل و
عیال پر تنگی کرنا -

اِقْسَطَ الْمَالَ بَيْنَهُمْ مال کو قوم کے
درمیان تقسیم کرنا -

تَقَسَّطَ الْقَوْمُ الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ کوئی چیز باہم
مساوی طور پر تقسیم کرنا -

الْقِسْطُ - النِّصْفُ هُوَا وَهُوَ قِسْطُ
وہ ایک جہ عادل ہیں حصہ مقررہ

مقدار - مِيزَان - نِصْفُ صَارِعٍ كَإِيمَانٍ
رِزْقٍ قَرْضٌ كِ قِسْطٌ جہ - أَقْسَطُ

الْقِسْطُ ایک دو کا نام کوٹھ - هُوَا قِسْطُ
الرِّجْلِ وَقِسْطُهَا سخت اور

سیدھے پاؤں والا جس کے پاؤں
چلنے میں مڑتے نہ ہوں -

الْقِسْطُ - اعْسَاكُ خَشْيٍ اور سختی -
الْأَقْسَطُ پتلی گردن والا مَوْنُ قَسَطًا

جہ قَسَطٌ رَجُلٌ قَسَطًا بٹھا
پاؤں - عُنُقٌ قَسَطًا خشک گردن
رُكْبَةٌ قَسَطًا وہ گھٹنا جو خشک

اور سخت ہو جائے اور مڑنے کے جہ
قَسَاطٌ

الْقِسْطَانُ غِبَارٌ
الْقِسْطَانُ وَالْقِسْطَانَةُ وَالْقِسْطَانِي

وَالْقِسْطَانِيَّةُ قَرَسٌ قَرَحٌ وَهَكَ
الْمُقْسَطُ عادل - خدا کا نام -

قَسَطَ الدِّرْهَمَ درہم کو پرکھنا -
الْقُسْطُ وَالْقُسْطَارُ غیر معمولی ذہین -

الْقُسْطَرِيُّ درہم کو پرکھنے والا نہایت
زیرک و عقلمند - عَظِيمُ الْجَنَّةِ جہ -

قَسَاطِرَةٌ
الْقُسْطَاسُ وَالْقِسْطَاسُ تَرَاذُلٌ

الْقُسْطَلُ وَالْقُسْطَالُ وَالْقُسْطُولُ
وَالْقُسْطَلَانُ لُطَائِيٌّ بَلَدٌ هُونِي

وَالْغَبَارُ جہ - قَسَاطِلُ أُمُّ قَسْطِلٍ
حادثة موت - تَحْمُ قِسْطَالٌ وہ ہنر

جس کے پانی کی آواز پیدا ہو -
الْقَسْطَلَّةُ اُونٹ کی بلبلاہٹ -

قَسْطَلَةُ الْمَاءِ پانی کے بننے کی
آواز - قَسَاطِلُ الْعُجْلِي گھوڑوں

کی آواز -
الْقَسْطَلَانِيَّةُ شَفَقٌ كِ سَرَحِي غِبَارِكِ

کثرت - وَالْقَسْطَلَانِي قَرَحٌ
قَرَسٌ قَرَحٌ

قَسَمَ قَسَمًا (ض) الشَّيْءَ تَقْسِيمٌ كَرْنَا
الدَّهْرُ الْقَوْمُ زمانہ کا قوم کو منتشر

کر دینا - فَلَانٌ أَمْرٌ اپنے کام کا
تخمینہ کرنا - کام کا اندازہ کرنا کہ کس

طرح کیا جائے -
قَسَمَ قَسَامَةً الْغَلَامُ لُكَّةٌ كَا

حسین و جمیل ہونا -
قَسَمَ الشَّيْءَ کسی چیز کو باٹنا اور

ٹکڑے کرنا قَسَمَ الدَّهْرُ الْقَوْمُ
زمانہ نے قوم کو متفرق کر دینا - الشَّيْءُ
کسی چیز کو خوبصورت بنانا -

ق

قَاسَمَهُ الْمَالُ - ہر ایک کا اپنے حصہ کو لینا
قَاسَمَهُ عَلَى كَذَا - کسی کو کسی امر پر
قسم دینا۔

اَقْسَمَ بِاللّٰهِ - خدا کی قسم کھانا۔
تَقَسَّمَ الشَّيْءُ - کسی چیز کو متفرق کرنا۔
الشَّيْءُ مُتَفَرِّقٌ هُنَا - تَقَسَّمْتُهُ
الْمُهْمُومُ - رنجوں کا کسی کو پرانگندہ خاطر
کر دینا۔ تَقَسَّمَ فُلَانٌ - دو محالوں
کے درمیان غور و فکر کرنا۔

تَقَاسَمَ الْقَوْمُ - باہم قسم کھانا۔ وَ قُسِّمَ
الْقَوْمُ الْمَالُ - مال میں سے ہر ایک کا
اپنے حصہ کو لے لینا۔

اَلْقُسْمُ - منقسم ہونا۔
اِسْتَقْسَمَ - تقسیم طلب کرنا۔ دو امور کے
درمیان غور و فکر کرنا۔

اِسْتَقْسَمَهُ بِاللّٰهِ - کسی سے خدا کی قسم
لینا۔

القِسْمُ - عطیہ۔ رائے، شک، عادت،
خلق، بارش، پانی، ہاڈی، قلب میں
ظن پیدا ہونا جو بعد میں یقین تک پہنچ
جائے۔ حَصَاةُ الْقُسْمِ - وہ کنکری
جو عرب سفر کے دوران میں پانی کی کمی
کے وقت کسی برتن میں ڈالتے تھے
اور اس پر پانی ڈالتے تھے تاکہ وہ
چھپ جائے۔ پھر اس کو ایک شخص پی
لیتا تھا اور اسی طرح ہر شخص کو دیا جاتا
تھا تاکہ کسی کو کمی یا زیادتی کی شکایت
نہ رہے۔

القِسْمُ - تقسیم شدہ چیز کا ایک بجز خیر کا
ایک حصہ۔ ج۔ اَقْسَامٌ - ج۔ اَقْسِيمٌ
القِسْمُ - قسم حلف۔ ج۔ اَقْسَامٌ
القِسْمَةُ - اقسام کا اسم۔ حصہ۔ ج۔
قِسْمٌ

اَلْقِسْمَةُ وَالْقِسْمَةُ - حسن، چہرہ۔
وَالْقِسْمُ - عطار کی بقی عطر فروش کا

طَبْعُ ج۔ قَسَمَاتٌ وَقَسِمَاتٌ
اَلْقَسَامُ - حُسن، شدت کی گرمی۔

اَلْقَسَامَةُ - حُسن، مسالحت، جماعت جو کہ
کسی چیز پر حلف اٹھا کر اس کو لے لے
وہ حلف جو خون کے ادبیا کو دی جائے
مخاورہ ہے۔ "حَكَمَ الْقَاضِي بِالْقَسَامَةِ"
یہاں قَسَامَةُ، اَقْسَمَ کا اسم ہے
جو مصدر کی جگہ رکھا گیا ہے۔

اَلْقَسَامَةُ - مال صدقہ۔ وہ جس کو تقسیم
کرنے والا اپنے لیے مخصوص رکھ لے۔
اَلْقَسَامِيُّ - پہلی مرتبہ کپڑے کو پیٹنے والا، کہ
اس کی تہہ کے نشان پڑ جائیں وہ چیز

جو دو اشیاء کے درمیان ہو۔
اَلْقَسَامُ - قاسم کا اسم مبالغہ۔

اَلْقَسِيمُ - ج۔ اَقْسِمَاءُ - حصہ منقسم
شے کا ایک حصہ۔ ج۔ اَقْسِمَاءُ و
قَسِمَاءُ - اپنا حصہ لینے والا۔ ج۔

قُسْمٌ - خوبصورت۔
اَلْقَسِيمَةُ - مونث عطر فروش کا صندوق۔

بازار۔ خوبصورت چہرہ والا۔ ج۔
قَسَائِمُ - الاقسومات۔ ج۔

مَقَاسِمُ - حصہ۔
اَلْاُقْسُومَةُ - اقسام کا واحد (لوگوں کے

درمیان منقسم شدہ حصص)،
اَلْمَقْسَمُ - تقسیم تقسیم کی جگہ۔ ج۔

مَقَاسِمُ - صاحب المقاسم
نائب امیر مال غنیمت کو تقسیم کرنے

والا۔
اَلْمُقَسَّمُ - قسم۔

اَلْمُقَسَّمُ - غلین خوبصورت تقسیم شدہ۔
شئی مَقْسَمٌ - مزین خوبصورت چیز۔

اَقْسَنَ الرَّجُلُ - کام کی وجہ سے ہاتھوں
کا سخت ہو جانا۔

اَقْسَانٌ اَقْسِنَانَا وَقَسَانِيَّةٌ -
الْعُودُ - لکڑی کا خشک اور سخت ہو

جانا۔ الرَّجُلُ - عمر رسیدہ اور خشک
ہونا۔ فِي الْعَمَلِ کام کو جاری کرنا۔
اَللَّيْلُ - اندھیرے کا سخت ہونا۔

اَلْمُقَسِّمُ - وہ شخص جو جوانی کے آخر اور
بڑھاپے کے اوّل میں ہو۔

قَسَا يَقْسُوْا قَسَوًا وَقَسَوَةً وَقَسَاوَةً
وَقَسَاوَةً - سخت اور ٹھوس ہونا۔

فَاعِلٌ قَاسٍ - ج۔ قَسَاةٌ ہے۔
اَللَّيْلُ - رات کا اندھیری ہونا۔ اَلدِّرْهَمُ

درہم کا کھوٹا ہونا۔ صفت قَسِيٌّ ہے۔
قَشِي تَقْسِيَةً وَاَقْسَى اَقْسَاءً -

الشَّيْءُ - کسی چیز کو سخت بنانا۔
قَاسِيٌ مَقَاسَةً - اَلْاَكْمُ - تکلیف اٹھانا

سختی برداشت کرنا۔
اَلْقَسِيُّ - سخت۔ مِنْ الدَّرَاهِمِ - کھوٹا

درہم۔ ج۔ قَسِيَانٌ - عَشِيَّةٌ قَسِيَّةٌ -
ٹھنڈی شام۔ يَوْمٌ اَوْعَامٌ قَسِيٌّ -

سخت دن یا سال جو سردی یا گرمی یا
قحط۔ سَوْنًا سَلْبًا قَسِيًّا - ہم نیز چلے

اَرْضٌ قَاسِيَةٌ - بجز زمین۔ كَيْلَةٌ
قَاسِيَةٌ - سخت اندھیری رات۔

مخاورہ ہے۔ هُوَ اَقْسَى مِنَ الصَّخْرِ
(وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے)

اَلْمَقْسَاةُ - وہ چیز جو سخت بنائے۔ بولا جاتا
ہے۔ اَلذَّنْبُ مَقْسَاةٌ لِلْقَلْبِ -

گناہ قلب کو سخت کرنے والا ہے۔
قَشَّ قَشَوُشَارُنَ، لاغری کے بعد ٹھیک

ہو جانا۔ فُلَانٌ - لاغری کی چال چلنا۔
- مِنْ مَرَضِهِ - مرض سے تندرست

ہونا۔
قَشَّ قَشَوُشَارُنَ، النَّبَاتُ - نباتات کا

خشک ہونا۔ الشَّيْءُ - کسی چیز کو جمع
کرنا۔ کسی چیز کو ہاتھ سے ملنا، تاکہ

ہموار ہو جائے۔ فُلَانٌ - صدقہ کے
ٹکڑے کھانا۔

ق ق

قَشَّ قَشّاً دُنْضَ قَشَشَ - اِدھر اُدھر
سکھانا - قَشَشَ بِكَلَامِهِ بِرَاجِلَا

کہنا - تکلیف پہنچانا۔
قَشَّ وَأَقَشَّ وَأَنْقَشَ الْقَوْمُ جَلَّ جَانَا۔
بھاگ جانا۔ أَقَشَّ مِنَ الْمَرَضِ
تندرست ہونا۔ أَقَشَّتِ الْأَرْضُ۔
زمین کی خشکی زیادہ ہونا۔ أَنْقَشَ
الْقَوْمُ۔ تفرق ہو جانا۔

تَقَشَّشَ وَأَقَشَّشَ مَا وَجَدَ۔ جو ملے
اس کو کھا جانا۔

القَشَّ - بڑا ڈول۔ روی کھجور کوڑا کرکٹ۔
القَشَّةُ - بندریا اس کا بچہ مہکے جسم کی
چھوٹی لڑکی۔ گرہیے کی طرح کا ایک کیڑا۔

تارکول لگانے کا صوف جو بعد از
اتصال پھینک دیا جائے۔

القَشِيشُ - سانپ کی کھال کی رگڑ کی آواز۔
القَشِيشُ وَالْقَشَاشُ وَالْقَشَاشِيَّ

راستہ میں پڑی ہوئی چیز جو کسی کو
مل جائے۔

القَشَاشُ - پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھانے
والا۔ وَالْقَشَاشُ وَالْقَشُوشُ

جو حقیر اشیاء خوردنی کو اٹھا کر کھالے
اسے قَشَّوْهُ۔ بھارو۔

قَشَبَ قَشْباً دُنْضَ قَشَبَ الْقَوْمُ الْقَشْبَ الْقَشْبَ

کوزہ ہر کھانا۔ قَشَبَ عَلَيْهِ ہتھان
لگانا۔ الْقَشْبُ - عار دلانا۔ عیب جوئی

کرنا۔ کسی کے حق میں بری بات کہنا۔
السَّيْفُ - تلوار کو صیقل کرنا۔

قَشَبَهُ الدُّخَانُ ناک کے سوراخوں
میں دھواں بھر جانا۔ بولا جاتا ہے

قَشَبْنِي دِيحَةً۔ اس کی ٹونے مجھے
تکلیف پہنچائی۔ قَشَبَهُ الْمَالُ مال

کا کسی کی عقل بگاڑ دینا۔ الشَّيْءُ
خراب کر دینا۔ قَشَبَ لَهُ زَهْرًا

قَشَبَهُ لِيَشْرَ برائی کی طرف منسوب

کرنا کہ اس کے ساتھ مشہور ہو جائے
قَشَبَ الرَّجُلُ دَمْتُ يَتَعَرِّفُ

حاصل کرنا۔ قَشَبَ دَقَشَبَ الطَّعَامُ
بِالشَّيْءِ کھانے میں زہر ملانا۔

قَلَانًا سَوَّوْهُ۔ کسی برائی میں ملوث
کرنا۔ قَشَبَتِ الرِّيحُ فُلَانًا بُوکا

کسی کو تکلیف دینا۔ قَشَبَ الشَّيْءُ
کسی چیز کو میل کچلا کر دینا۔

قَشَبَ قَشَابَةً دَكْ، الشَّيْءُ پاکیزہ
نہیں ہونا۔

اَقَشَبَ۔ تعریف یا مذمت حاصل کرنا۔
تَقَشَّبَ السَّيْفُ۔ تلوار پر زنگ چڑھ جانا

اِسْتَقَشَبَهُ۔ نفرت کرنا۔
القَشَبُ۔ نفس، لوہے کا زنگ، سخت

خشک زہر۔ مِنَ الطَّعَامِ کھانے
کا وہ حصہ جو اچھانے ہونے کی وجہ سے

پھینک دیا جائے۔ ج۔ اَقَشَابُ
رَجُلٌ قَشَبٌ خَشَبٌ ناکارہ

آدمی آخری کلمہ اتباعاً استعمال
کیا گیا ہے،

القَشْبَةُ جس میں کوئی خیر نہ ہو خیس آدمی
القَشَبُ زہر۔ ج۔ اَقَشَابُ

القَشَبُ جدید۔ پُرانا راہنما میں سے
ہے، سَيْفٌ قَشَبٌ صیقل شدہ یا

زنگ آلود تلوار (اضداد)
القَشْبُ جدید، پاکیزہ۔ سفید۔ ج

قَشَبٌ وَقَشَبٌ سَيْفٌ قَشْبِيٌّ
چمکدار یا زنگ آلود تلوار (اضداد)

القَشْبَانِيَّةُ پرانی چادر۔
المُقَشَّبُ غیر خالص حَسَبُ مُقَشَّبٌ

رَجُلٌ مُقَشَّبُ الْحَسَبِ کمینہ
حسب کا آدمی۔

قَشَدَ قَشْدًا دُنْضَ قَشَدَ الْقَوْمُ الْقَشْدَ

القَشْدَةُ رقیق مکھن، ایک بہت
دودھ والی گھاس۔ وَالْقَشَادَةُ

گھی کا تلچٹ۔

قَشَرَةُ قَشْرًا دُنْضَ وَقَشَرَةُ کھال
یا چھلکا اتارنا۔ الْقَوْمُ قوم پر بد فالی

لانا۔ قَشَرَ قَشْرًا دُنْضَ مَوْتًا چھلکا
ہونا۔

تَقَشَّرَ وَتَقَشَّرَ جھل جانا۔
اِقْتَشَرَ الرَّجُلُ برہنہ ہو جانا۔ صفت

مُقْتَشَرٌ ہے۔
القِشْرُ چھلکا قدرتی ہویا عارضی، جسم کو

چھپانے والا۔ لباس ج۔ قَشُورٌ
والقِشْرُ ایک بالشت کے برابر

ایک ٹچل ہے۔ الْقَشْرَانُ ٹڈی کے
ہر دو بازو۔ الْقَشْرُ سخت سُرخ۔

القِشْرُ وَالْقَشِيرُ بہت چھلکے والا۔
تَمَرٌ قَشِيرٌ وَقَشِيرٌ بہت چھلکے

والی کھجور۔
القُشْرَةُ وَالْقُشْرَةُ وَالْقُشْرَةُ سطح

زمین کو چھیلنے والی بارش۔ الْقُشْرَةُ
شوم و منخوس۔

القُشْرَةُ چھلکا چھال، یہ قشر کے مقابلے
میں زیادہ خاص ہے جیسے قُشْرَةُ

الْبَيْضَةِ۔
القَاشِرُ (فاعل) مِنَ الْخَيْلِ گھوڑوں میں

آخر تک جاری رہنے والا گھوڑا۔
القَاشِرَةُ دُمُوثُ قَاشِرٍ ہلکی رگڑ و زخم جو

کہ کھال کو پھیل دے۔ وہ عورت جو
اپنے چہرہ کو رگڑے تاکہ اس کا رنگ

صاف ہو جائے۔
القَاشِرُ وَالْقَاشِرَةُ مِنَ الْأَعْوَامِ

وہ قحط کا سال جو ہر چیز کو متاثر کر دے
سَنَةٌ قَاشِرَةٌ وَقَاشِرٌ قحط

والا سال۔ الْقَاشِرُ منخوس۔
مِنَ الْخَيْلِ گھوڑوں میں پیچھے رہنے

والا گھوڑا۔
القُشَارُ سانپ کی کھال۔

ق

القَشَارَةُ: وہ کھال جو پھیلی ہوئی چیز۔

اتاری گئی ہو۔

الْقَشْرُ: وہ چیز جس کی کھال اتر گئی ہو۔

وہ شخص جس کی ناک گرمی سے پھل گئی

ہو۔ نہایت سُرخ۔ پھلہری کا مریض۔

بہت سوال کرنے والا۔ مِنَ الْأَرْضِ

چٹکری زمین۔ مُؤْت قَشْرًا: ج

قَشْرًا: شَجْوَةً قَشْرًا: وہ درخت

جس کا بعض حصہ پھلا ہو اور بعض حصہ

پھلا ہوا نہ ہو۔ حَيَّةٌ قَشْرًا: وہ

سانپ جس نے کینچی اتار دی ہو۔

الْقَشُورُ: غارہ۔ اُبنا۔ چرے کا رنگ

نکھارنے والا مرکب۔

الْمُقَشَّرُ (مفعول) جَوَابٌ مُقَشَّرٌ:

واضح اور ریح جواب۔ رَجُلٌ

مُقَشَّرٌ: برہنہ آدمی۔

الْمُقَشَّرُ: سوال میں اصرار کرنے والا

قَشْرًا قَشْطًا (ض) لائھی سے مارنا

قَشَطَ عَنْهُ كَذًا: کھولنا اور اس

سے کپڑے اتارنا۔

قَشَطَ الرَّجُلُ: چھین لینا۔

لَقَشَطَ وَالْقَشَطُ: برہنہ ہو جانا۔

لَقَشَطَتْ وَالْقَشَطُ السَّمَاءُ:

آسمان کا صاف ہو جانا۔

الْقَشَطَةُ: دودھ یا دہی کی ملائی دلفت

عامیانہ،

الْقَشَاةُ: ننگا پن (کشاط کا دوسرا اطلاق)

الْقَشَاةُ: چھین لینے والا۔

الْمَقْشَطُ: چھلکا اتارنے کا چاقو۔ ج

مَقَاشِطُ:

الْمَقْشَطَةُ عِنْدَ الْعَقَادِيْنِ: ایک آلہ

ہے جس کے ذریعہ حریر کے دھاگوں کی

السَّحَابُ: ہوائے ابر کو منتشر کر دیا

أَقْشَعَ الْقَوْمُ: قوم کا متفرق ہو جانا

أَقْشَعُوا عَنِ الْمَاءِ أَوِ الْمَكَانِ:

پانی یا جگہ سے دور جا پڑنا۔ أَقْشَعُ

السَّحَابُ: ابر کا چھٹ جانا۔ بادل کا

صاف ہونا۔

قَشَعٌ قَشَعًا (س) الشَّيْءُ خَشَكَ بِوَجَانَا:

الْقَشَعُ اللَّيْلُ: رات کا آخر ہونا۔

لِالْقَشَعِ وَتَقَشَعُ السَّحَابُ: ابر کا کھلنا

تَقَشَعُ الْقَوْمُ: قوم کا منتشر ہو جانا۔

لِالْقَشَعِ الْقَوْمُ عَنْ أَمَاكِيهِمْ: قوم کا

اپنی جگہوں سے دور دراز جا پڑنا۔

الْهَمُّ عَنِ الْقَلْبِ غَمٌّ كَادِلٌ سَ

زَائِلٌ ہونا۔

الْقَشَعُ: پرانی پوستیں۔ احق بشرمرغ

کے پر چڑے کا گھر۔ ج۔ قَشُوْعٌ:

پرانا مشیزہ۔ وہ شخص جس کا گوشت

بڑھاپے کی وجہ سے ٹکنے لگا ہو۔

زَبِيلٌ: زہجہ۔ وہ خشک مٹی جو پھٹ

جلے، خشک کھال۔ ج۔ قَشَعٌ:

الْقَشَعُ وَالْقَشَعُ: زائل ہونے والا

بادل۔ الْقَشَعُ وَالْقَشَعُ وَالْقَشَعُ

کوڑا کرکٹ جو حمام میں سے نکالا جائے

الْقَشَعَةُ: ج۔ قَشَاعٌ وَالْقَشَعَةُ:

ج۔ قَشَعٌ: خشک کھال کا ٹکڑا۔

ابر کھل جانے کے بعد جو ابر کا کوئی ٹکڑا

باقی رہ جائے۔ الْقَشَعَةُ: اسم مرۃ

ہے، پرانی پوستیں کا ٹکڑا۔ وہ خشک شدہ

مٹی کا ٹکڑا جو پھٹ جائے، بڑھیا۔

ہوائے شمالی۔

الْقَشَعُ: خشک۔ وہ شخص جو ایک معاملہ

پر قرار نہ پڑے۔ شَاةٌ قَشَعَةٌ:

لاغر بکری۔ آراگہ قَشَعَةٌ: گھنے

پتوں والا پیلو کا درخت۔

الْقَشَاعُ: پرانا ٹکڑا۔ پیوند۔

الْقَشَاعُ: مادہ بجو کی آواز۔

الْقَشَاعَةُ: ناک کی ریش جو پھینکی جائے۔

الْقَشِيْعُ مِنَ الْكَلَامِ: متفرق کلام۔ هُوَ

أَقْشَعُ مِنْهُ: وہ اس سے اثرت ہے

إَقْشَعَزَ جِلْدُهُ: لرزنا۔ سکرنا۔ سخت

اور کھردرا ہونا۔ رنگ متغیر ہونا۔ صفت

مُقَشَّعٌ: ج۔ مُقَشَّعُونَ و

قَشَاعِيْرٌ: اقْشَعَوْتَ السَّنَةَ:

سال کا بلا بارش اور قحط والا ہونا۔

الْأَرْضُ: بارش نہ ہونے کی وجہ سے

زمین کا زیادہ خشک ہو جانا۔ اقْشَعَزَ

الشَّعْرُ: ڈیر یا سردی سے روٹنے کھڑے

ہو جانا۔

الْبُنْتُقَشَعُ: کانپنے والا۔

الْقَشْعِيْرَةُ: لرزہ بدن۔ کپکی اقشعرا

اسم ہے۔

الْقَشَاعِيْرُ: کھردرا محسوس ہونے والا۔

الْقَشَعُمُ: زیادہ عمر والا آدمی یا عورت یا

گدھ، ہر چیز کا پرانا، بڑا، شیر۔ ج

قَشَاعِمٌ وَقَشَاعِيْمٌ: اُمٌ قَشَعِمٌ

لڑائی، آفت، بجو، موت۔

الْقَشَاعُ وَالْقَشَعَانُ وَالْقَشَعَانُ

بڑا مذکر گدھ، عمر رسیدہ آدمی یا گدھ

الْقَشَاعَمَةُ: درندوں کو پکڑنے کا بیجرو نما

آلہ۔

الْقَشَعُومُ: حقیر الجشہ، چچڑی۔

قَشِفَتْ قَشْفًا (س) وَقَشِفَتْ قَشْفًا:

دک، وَقَشِفَتْ: بد حال و تنگ دست

ہونا۔ گندہ بدن والا ہونا۔ صفت

قَشِفْتُ وَقَشِفْتُ وَقَشِفْتُ تَقَشِفٌ

تنگی سے گذر کرنا۔ فی لِبَاسِهِ: لباس کا

پیوند والا اور میلا ہونا۔

قَشِفَ اللَّهُ عَيْشَهُ: خدا کا کسی کی

زندگی تنگ اور مشکلات سے پر کر دینا۔

عَامٌ أَقْشَفٌ: سخت سال۔



قَشَقَشَهُ - مِنَ الْجَرَبِ اِذَا جُدِرِي
قَتَقَشَقَشَ - كَهَجَلِي يَابِجِيك سے کسی
کوشفا دینا اور اس کا شفا پانا۔
القَشَقَشَةُ - آگ میں گوشت بھوننے کی
سناہٹ۔
قَشَمَ قَشَمًا (ن) الطَّعَامَ - بہت کھانا
کھانا۔ عمدہ کھانا کھانا۔
قَشَمَ قَشَمًا (ض) الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ -
گھر میں داخل ہونا
اِقْتَشَمَ - اِدْهَرُ اِدْهَرُ سے کھانا۔
القَشْمُ والقَشْمُ - زمین میں پانی کی نالی
سُرخ اور بھنا ہو گوشت - القَشْمُ
طبیعت جسم، حال و ہیئت، چربی،
جڑ - قَشْمٌ۔
القَشَامُ والقَشَامَةُ - دسترخوان پر بچا
ہوا بیکار کھانا۔
القَشِيمُ - خشک سبزی - ج قَشْمٌ۔
موت۔
المَقَشْمُ - قَشْم کا اسم ظرف مجاورہ میں
ہے مَا اَصَابَتْ الْاِبِلُ مَقَشَمًا -
اونٹ کو چرنے کی جگہ نہ ملی۔
القَشْمُ - پست قامت، غلیظ و ٹھوس
جسم والا۔
قَشَا يَقْشُوا قَشْوًا وَقَشَى - الْعُودَ - لکڑی
کو پھیلانا۔ الْوَجْهَ - چہرہ کو ملنا۔
قَشَا عَنْ حَاجَتِهِ - اس کو اپنی
ضرورت سے روکا۔
اَقْشَى اِقْشَاءً - مال داری کے بعد
تنگ دست ہونا۔
تَقَشَّى الشَّيْءُ - کسی چیز کا پھل جانا۔
القَاشِي - کھوٹا پیسہ۔
القَشَاءُ - بھوک۔
القَشْوَةُ - کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی
ڈلیا جو خورتوں کے روٹی اور خوشبو
رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ ج۔ قَشَاءٌ و

قَشَوَاتٌ -
القَشَوَانُ مِنَ الرِّجَالِ - کمزور آدمی، مرنے
قَشَوَانَةٌ -
القَشِيُّ مِنَ الدَّرَاهِمِ - کھوٹا درہم۔
المَقْشُو والمَقْشَى - پھیلا ہوا۔
قَصَّ قَصًّا (ن) الشَّعْرَ وَنَحْوَهُ - بال و نیوہ
قینچی سے کاٹنا۔ النَّسَاجَ الشَّوْبَ -
پارچہ بان کا کپڑے کے زائد دھاگے
کاٹنا۔ قَصَّةٌ - کان کے گرد والے حصہ
کو کاٹنا۔ مَا يَقْصُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ -
اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ تھرتی ہے
نہ قائم رہتی ہے۔ وَاَقْصَى الْمَوْتُ
فُلَانًا - موت کا کسی سے قریب ہوجانا
محاورہ ہے کہ مَرَبَةً اَحْتَى قَصَّهُ عَلَى
الْمَوْتِ وَاَقْصَاهُ مِنَ الْمَوْتِ -
اس کو اتنا مارا کہ موت کے قریب کر
دیا۔ قَصَّتْ وَاَقْصَتِ الشَّاةُ - بکری
کا حمل ظاہر ہوجانا۔ مَفَّتْ مَقْصٌ -
اور جہ مَقَاصٌ ہے۔ اَقْصَى الْاَمِيرُ
فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ - امیر کا کسی شخص کا
انتقام کسی سے لینا۔ اَقْصَى الرَّجُلُ
مِنْ كَلْبِهِ - اپنے آپ کو بدلہ دینے
کے لیے سپرد کرنا۔
قَصَّ قَصًّا (ن) عَلَيْهِ الْخَبَرُ - کسی کو
خبر دینا۔ قَصًّا وَقَصًّا اَثَرًا -
بندرتیج اتباع کرنا۔ قَصَّصَ الشَّيْءَ
کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
قَاصٌ وَقَاصًا وَمَقَاصَةٌ - الرَّجُلُ
يَمَّا كَانَ لَهُ قَبْلَهُ - بدلہ میں اس کے
مثل کو روکتا۔ قَاصَّةٌ - کسی پر قصاص
ڈالنا۔ بدلہ دینا۔ کسی کے فعل کی طرح
فعل کرنا۔
تَقْصَصَ اَثَرًا - کسی کے اثر کی اتباع کرنا
- الْكَلَامَ - یاد کرنا۔
تَقَاصُ الْقَوْمِ - حساب وغیرہ میں ایک

دوسرے کو بدلہ دینا۔
اَلْقَصَصُ - کٹ جانا۔
اَقْتَصَّ اَثَرًا - کسی کی اتباع کرنا۔ مِنْ
فُلَانٍ - قصاص لینا۔ الْحَدِيثُ
روایت کرنا۔
اِسْتَقْصَاهُ - کسی سے خواہش کرنا کہ وہ دشمن
سے انتقام لے۔
القَصُّ والقَصَصُ - سینہ اور اس کی
بڈی۔ ج۔ قَصَاصٌ - قَصَصُ الشَّاةِ
بکری کی کاٹی ہوئی اون۔
القَصَّةُ - قَصٌّ کا اسم مرہ ہے۔ گچ یا چونا
ج۔ قَصَاصٌ۔
القَصَّةُ - اسم نوع ہے۔ قصہ، واقعہ،
حال۔ ج۔ قَصَصٌ وَاَقْصِصُ -
القَصَّةُ - پیشانی کے بال جو ماتھے کے
مقابلے میں کاٹے جائیں۔ بالوں کا مجموعہ۔
ج۔ قَصَصٌ وَقِصَاصٌ -
القَصَاصُ - ایک پودا ہے جس کو شہد کی مکھی
چوستی ہے۔ واحد قَصَاصَةٌ ہے۔
القَصَاصُ - جرم کا بدلہ، انتقام۔
القَصَاصُ - سر پر قینچی چلنے کی جگہ۔ قِصَاصُ
الشَّعْرِ - قاف کی تینوں حرکات کے
ساتھ سر کے آگے یا پیچھے کا وہ حصہ
جہاں سے بال اگنے شروع ہوتے ہیں۔
القَصَاصَةُ - بال یا ناخن کا تراشہ۔
القِصِصُ - سینہ پر بال اگنے کی جگہ۔
ایک گھاس جو کھنبی کی جڑ میں اگتی ہے
اور اس کے پانی سے سرد ہوا جاتا ہے
واحد قِصِصَةٌ۔ ج۔ قَصَاصٌ۔
القِصِصَةُ - وہ اونٹ جو سوار یوں کی
اتباع کرے۔ قصہ، پست اونٹ جس
پر اس کی کمزوری کی وجہ سے کھانا اور
اسباب لادا جائے۔ کسی جگہ پر جمع
ہونے والا گروہ۔ محاورہ ہے کہ
تَرَكْتُهُمْ قِصِصَةً وَاحِدَةً - میں

نے ان کو ایک جگہ میں جمع شدہ چھوڑا۔
القاص۔ قصہ گو۔ خطیب۔

القصاص۔ وہ شخص جو اجرت لے کر لوگوں کے اجتماع میں قصہ بیان کرے۔ وہ شخص جو اونٹ وغیرہ کی ادلت کرتے کا پیشہ کرتا ہو۔

المقصص۔ وہ شخص جس کی پیشانی پر بال ہوں۔ رجل مقصص۔ بڑے سینہ والا۔

المقص۔ اثر، علامت۔ المقصص۔ کترنے کا آلہ۔ قینچی۔

مقاص۔ قصہ گو۔ قصہ گو کاٹنا۔ قصب الشاة۔

قصبہ قصیادض، کاٹنا۔ قصب الشاة۔ بکری کے عضو کو جدا کرنا۔ قصبیا۔

وقصویا۔ البعیر۔ اونٹ کا پانی پینے سے رک جانا۔ الإنسان وغیرہ کسی کو پینے سے روک دینا۔ سیراب ہونے سے قبل روک دینا۔ الرجل۔

گالی دینا۔ قص۔ کسی کو گالی دینا۔ قصب الشعیر۔

بال کو گھونگھریا لے بنانا۔ الزرع۔ کھیتی کے تنوں کا مضبوط ہونا۔ فلانا۔

ہاتھوں کو گردن پر باندھنا۔ اقصب المكان۔ جگہ کا نرمل والی ہونا۔

الزراعی۔ چرواہے کے اونٹ کا پانی سے کراہت کرنا۔

اقتصب الشیء۔ کوئی چیز کاٹنا۔ القصب۔ پیٹھ، آنت۔ ج۔ اقصاب۔

القصب۔ ہر وہ گھاس جس کے پوسے اور گریں ہوں واحد قصبة۔

ایک قسم وہ ہے جس سے بانسری بنائی جاتی ہے اور اس سے مکانوں کی چٹیں

پائی جاتی ہیں۔ اور ایک قسم وہ ہے جس سے قلم بنائے جاتے ہیں۔ قصب

السکر۔ گتہ۔ القصب ہاتھ پیروں

کی نلی۔ ہر گول اور لمبی بڑی جو پولی ہو ہر گودے والی بڑی۔ حلق کی شاخیں

اور سانس کے راستے اور نالیاں۔ مستطیل جو ہر چشموں کے پانی جاری ہونے کی نالیاں۔ چمکدار موتی یا قوت

کے ساتھ مزین چمکدار زبرجد۔ بولا جاتا ہے۔ آخر قصص السبق

وہ سبقت لے گیا۔ اس کی اصل یہ ہے کہ مسابقت کے میدان میں انتظار پر

ایک بانس کا ڈوبیا جاتا تھا اور اس کو جو شخص اکھاڑ کر لے جاتا تھا۔ وہی

سابق شمار کیا جاتا تھا۔ القصبة۔ قصب کا واحد۔ شہر یا ملک

کی سب سے بڑی بستی۔ گاؤں یا گاؤں کا وسط۔ نیا کھدا ہوا کنواں۔

بالوں کا لپٹا ہوا گچھا۔ قصبة الصبغ۔ انکلی کا پورا۔ قصبة التمری۔

حلق سے معدہ تک غذا کی نالی۔ نخر۔ قصبة الأنف۔ ناک کا بانس۔

قصبة الوثقة۔ سانس کی نالی۔ القصبی۔ واحد قصب۔ السی کا نرم و

باریک کپڑا۔ القاصب۔ بانسری بجانے والا۔ قصاب۔

بہت آواز والی گرج۔ ج۔ قصاب۔ والقصیب من الابل۔ وہ اونٹ

جو پانی پینے سے باز رہے اور پانی سے منہ اٹھا لے۔ بولا جاتا ہے۔ بعیر

قصیب دناقة۔ قصيبة۔ القصباء۔ بانسوں کا مجموعہ۔ بانسوں کے

پیدا ہونے کی جگہ۔ واحد قصباء۔ أجمة قصباء۔ بانس کی جھاڑی۔

القصاب۔ بانسری بجانے والا۔ نے نواز۔ قصاب۔

القصاب۔ قصاب کی ٹونٹ۔ لوگوں کی عیب جوئی کرنے والا۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔

القصاب۔ ج۔ قصاب۔ والقصيبة۔ ج۔ قصاب۔



قَصْدٌ قَصَادَةٌ (دک)، البَعِيرُ۔ اونٹ کا موٹا ہونا۔

اَقْصَدَ: کسی کو اس طرح نیزہ مارنا کہ خط نہ کرے۔ الحَيَّةُ فَلَانًا: سانپ کا ایسا ڈسنا کہ جانبر نہ ہو سکے۔

اَقْصَدَ الشَّيْءُ: کسی کو ایسا تیر لگنا کہ موقع پر ہی ڈھیر کر دے۔

اَقْصَدَ الشَّاعِرُ: قصیدہ کوئی جاری رکھنا۔ محاورہ ہے اَقْصَدَنِي اِلَيْكَ الامرُ: مجھے ایک کام نے تیرے پاس آنے کے لیے برا لگھتے کیا۔

تَقَصَّدَ الْكَلْبُ: و غلبوہ۔ مرجان: تَقَصَّدَ کسی کا ارادہ کرنا۔ کسی کو موقع پر ہی مار دینا۔ اَقْصَدَ النِّصْدَ: نیزہ کا ٹوٹ جانا۔

اَلْقَصْدُ: راستگی استقامت۔ استدلال و میانہ روی۔ رَجُلٌ قَصْدٌ: وہ آدمی جو نہ موٹا ہو نہ لاغر۔ طَرِيقٌ قَصْدٌ: سیدھا راستہ۔ اِنَّهُ عَلَى قَصْدٍ: وہ ہدایت پر ہے۔ عَلَى اَللّٰهِ قَصْدُ السَّيِّلِ: اللہ پر ہے بیان کرنا سیدھے اور حق تک پہنچانے والے راستہ کا۔ هُوَ قَصْدُكَ اَوْ قَصْدُكَ: وہ تمھارا سامنے ہے۔

اَلْقَصْدُ مِنَ الْعَوْنِ: عَوْج و غیرہ کی نازک شاخیں۔ بہر خار دار پودہ جب وہ اُگے۔ واحد قَصْدَةٌ: الْقَصْدُ: جھوک۔ رُمَحٌ قَصْدٌ و قَصِيدٌ و اَقْصَادٌ: ٹوٹا ہوا نیزہ۔

اَلْقَصِيدُ مِنَ الشَّعْرِ: وہ اشعار جو تین یا اس سے نائد ہوں بعض نے کہا ہے کہ سولہ اور اس سے نائد وہ اشعار جو عمدہ اور مذب کیے ہوئے ہوں۔ الْقَصِيدُ: زیادہ مرغن گودا، خشک گوشت، لاٹھی، فرہ و جوان اذنی

چریلا کوٹان۔

اَلْقَصْدَةُ: توڑی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔ ج قَصْدٌ۔

اَلْقَصُودُ: زیادہ روغن والا گودا۔

اَلْقَصِيدَةُ مِنَ الشَّعْرِ: وہ اشعار جو سادس سے زیادہ ہوں۔ لاٹھی۔ قَصِيدٌ کا واحد۔ ج قَصِيدٌ و قَصَائِدٌ۔

اَلْقَاصِدُ: مِنَ السَّفَرِ۔ آسمان اور قریب سفر۔ طَرِيقٌ قَاصِدٌ: ہموار راستہ۔ ج۔ قَاصِدٌ۔

اَلْقَاصِدَةُ: قاصد کی موت۔ محاورہ ہے بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ كَيْلَةُ قَاصِدَةٍ: ہمارے اور پانی کے درمیان ایک بغیر تھکن و دیر والی رات کی مسافت ہے۔ ج۔ قَوَاصِدٌ۔

اَلْمُقَصَّدُ: جو یہاں ہو کر جہاں جائے۔ اَلْمَقْصِدُ: مقصد کی جگہ۔ کہا جاتا ہے بَابُكَ مَقْصِدِي: تیرا دروازہ میرا مقصود ہے۔ ج۔ مَقَاصِدُ رَجُلٌ مُقْصَدٌ و مُقْصِدٌ: وہ آدمی جو نہ بھاری جسم والا ہو اور نہ لاغر۔

اَلْمُقْصَدَةُ: اونٹوں کے کان کا ایک نشان۔

قَصْدِيرٌ: ایک دھات ہے جس کا ٹانکا لگایا جاتا ہے اور اس کی قلعی کی جاتی ہے۔ رائگ، اس کا ایک ٹکڑا۔ قَصْدِيرَةٌ: ہے۔

قَصَرَ قَصُورًا (دن) الشَّيْءُ: ناقص ہونا سستی ہونا۔ عَنِ الشَّيْءِ: کسی چیز سے رک جانا اور عاجز ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کر دینا۔ عَنْهُ: الغَضَبُ اَوْ الْوَجَعُ: غصہ یا درد کا فرو ہو جانا۔ السَّهْمُ عَنِ الْهَدَفِ: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ بِنَا لِبُقْعَةٍ: جگہ کا مقصد تک نہ پہنچانا۔ الطَّعَامُ

کھانے کا زیادہ ہونا۔ اللَّحْمُ: گوشت منگنا ہونا۔ قَصْرًا: قَبِلُ البَعِيرُ۔ اونٹ کی زنجیر یا کوڑنگ کرنا الصَّلَاةُ وَمِنَ الصَّلَاةِ: قصر نماز پڑھنا۔ الشَّيْءُ: روکنا۔ السَّيْرُ: پردہ گرانا۔ بِهَ اللَّيْلِ: رات کا کسی کو روکنا۔ الدَّارُ: گھر کو دیوار سے مضبوط کرنا۔ محاورہ ہے قَصَرْتُ بِكَذًا نَفْسُكَ: تیرے نفس نے معمولی اور حقیر سی چیز طلب کی۔

قَصَرَهُ قَصْرًا (من) فِي بَيْتِهِ: گھریں محبوس کرنا۔ قَصَرَهُ عَلَى الْأَمْرِ: کسی کو کسی کام پر لوٹانا۔ قَصَرَ الشَّيْءُ: عَلَى كَذَا: کسی چیز پر اقتصار کرنا اور اس سے تجاوز نہ کرنا۔ قَصَرَ نَفْسَهُ: عَلَى كَذَا: کسی چیز پر قناعت کر لینا اور دوسری چیز کی طرف نگاہ نہ اٹھانا۔ اَلظَّلَامُ: غلط ملط ہونا۔ گڈ ملط ہو جانا قَصَرَ عَلَى نَفْسِهِ نَاقَةً: اونٹنی کو اپنے دودھ پینے کے لیے خاص کر لینا وہ ناقہ مَقْصُورَةٌ کہلاتی ہے۔ الشَّيْءُ: کسی چیز کو کوتاہ کرنا۔

قَصَرَ قَصْرًا اَوْ قَصْرًا اَوْ قَصَارَةً (دک)، چھوٹا ہونا۔ قَصَرَ قَصْرًا (دک)، گردن کا خشک ہونا۔ درد گردن میں مبتلا ہونا صفت قَصِرٌ و اَقْصَرُ: موت قَصْرَةٌ و قَصْرَاءُ۔

قَصَرَ: الشَّيْءُ: کسی چیز کو چھوٹا کرنا۔ الثَّوبُ: کپڑے کو کوٹ پیٹ کر سفید کرنا۔ فِي الْعِطِيَّةِ: عطیہ کو خفیف و قلیل کرنا۔ فِي الْأَمْرِ: سست ہونا۔ قَصَرَ عَنِ الْأَمْرِ: باوجود قدرت کے کسی کام سے باز رہنا۔ مِنَ الشَّعْرِ: بال کرتنا۔ عَنِ الشَّيْءِ: عدم قدرت کی وجہ سے کسی چیز کو ترک کر دینا۔



عَنْهُ الْوَجَعُ اِدْعُ الْعَصْبُ۔ دردی غصہ کو سکون ہونا۔
 اقْصِرْہُ کسی چیز کو چھوٹا کرنا۔ لمبائی کم کرنا
 کوتاہ و مختصر کرنا۔ فَلَانٌ شام کے
 وقت میں داخل ہونا۔ اَقْصَرْتُ
 الْمَرْأَةَ عورت کے چھوٹے چھوٹے
 بچے پیدا ہونا۔ اَقْصَرَ الْمَطْلُ بارش
 کا ٹھہر جانا۔ اِکْلَامٌ مختصر کلام کہنا۔
 مِنَ الصَّلَاةِ قصر نماز پڑھنا۔
 وَتَقَاعَرَ عَنِ الْأَمْرِ کسی کام کو
 قدرت ہونے کے باوجود چھوڑنا۔
 تَقَاعَرَ الرَّجُلُ قصور و کوتاہی
 ظاہر کرنا۔ تَقَاعَرَ الظِّلُ سایہ کا
 قریب ہونا اور سکڑنا۔ تَقَاعَرَتْ
 نَفْسُهُ۔ بتکلف چھوٹا اور لاغر ہونا۔
 تَقْصَرَ يَفْلَانٌ کسی کے ساتھ
 مشغول ہونا۔
 اِقْتَصَرَ عَلَى كَذَا کسی چیز پر اکتفا کر لینا
 اِقْتَصَرَتْہُ کسی کی گردن کی اصل
 کیلینا۔
 اِسْتَقْصَرَتْہُ کسی کو کوتاہ قند یا کوتاہی کرنے
 والا جاننا۔
 الْقَاصِرُ مَا قَاصَرَ گھاس سے دور
 پانی۔ بعض نے کہا ہے کہ ٹھنڈا پانی۔
 نَحْلٌ قَاصِرٌ گھاس اور پانی کے درمیان
 اتنا فاصلہ کہ کتے کے بھونکنے کی آواز
 پہنچ جائے۔
 الْقَاصِرَةُ قاصد کی مونت۔ اِمْرَأَةٌ
 قَاصِرَةٌ الطَّرِيفِ۔ وہ عورت جو اپنے
 خاوند کے علاوہ کسی مرد کی طرف نظر نہ
 اٹھائے۔
 الْقَصْرِ خَشک لکڑی۔ محل۔ کوٹھی۔ قَصْرُ
 الْمَجْدِ شرافت و بزرگی کی کان۔
 ج۔ قُصُورٌ۔
 الْقَصْرِ جھوٹا پن۔

الْقَصْرُ وَالْقَصْرُ وَالْقَصْرَةُ و
 الْقَصَارُ وَالْقُصُورُ۔ کوتاہی، یقیناً
 الْقَصَارُ وَالْقَصْرِ۔ سستی۔
 الْقَصْرُ وَالْقَصَارُ وَالْقَصَارُ وَالْقَصَارِ
 کوشش و انتہاء۔ محاورہ عرب ہے
 قَصْرَكَ اَوْ قَصَارَكَ اَوْ قَصَارَكَ
 اَوْ قَصَارَكَ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا۔
 تیری انتہائی کوشش و آخری معاملہ
 اور قدرت یہ ہے کہ تو ایسا کرے۔
 بولا جاتا ہے۔ هُوَ ابْنُ عَمِّي قَصْرَةً
 اَوْ قَصْرَةً۔ وہ میرا قریب النسب
 بچا کا لڑکا ہے۔
 الْقَصْرُ وَالْقَصْرَةُ وَالْقَصْرِي و
 الْقَصْرِي وَالْقَصَارَةُ جھپٹی میں
 باقی ماندہ اناج کا فضلہ۔ کھلیان کے
 بعد جو دانے بالوں میں باقی رہ جائیں۔
 الْقَصْرِي وَالْقَصْرِي۔ ایک قسم کا سانپ
 الْقَصْرِي۔ معاملہ کا انجام۔
 الْقَصْرِيَانِ۔ وہ پسلیاں جو ہنسی کے
 قریب ہیں۔
 الْقَصْرِي وَالْقَصْرِي کھلیان کرنے
 کے بعد جو دانے بالوں میں باقی رہ
 جائیں۔ رَجُلٌ قَصْرِيٌّ خاص شخص
 اور اس کی نظیر عَمِّي یعنی عام ہے۔
 الْقَصْرَةُ لکڑی کا ٹکڑا۔ پزندہ کی دُم کی
 اصل۔ موٹی گردن کی جڑ۔ ج۔ قَصْرٌ
 دَافِعٌ اَوْ قَصْرَاتٌ۔ الْقَصْرَةُ
 سستی۔
 الْقَصَارَةُ۔ چار دیواری والا کشادہ گھر
 قَصَارَةُ الْأَرْضِ فریبہ سطح والی اور
 ندریز زمین۔
 الْقَصَارَةُ دھوبی کا پیشہ۔ کوتاہ قد عورت
 اِمْرَأَةٌ قَصَارَةٌ۔ ٹھگنی عورت۔
 قَبْصَرٌ۔ روم کے ہر بادشاہ کا لقب۔ ج
 قَبْصَرَةٌ۔

الْتِقْصَارُ وَالتَّقْصَارَةُ۔ گردن بند ہونا
 ج۔ تَقْصِيرٌ۔
 الْقَصِيرُ۔ کوتاہ قد۔ سَبِيلٌ قَصِيرٌ۔
 سیلاب جوادی میں پوری طرح نہ پھیلے
 قَصِيرُ الْعِلْمِ۔ کم علم۔ ج۔ قَصَارٌ
 وَقَصْرَاءٌ۔ مَوْنٌ قَصِيرَةٌ۔ ج
 قَصَارٌ وَقَصِيرَاتٌ وَقَصَائِرُ
 الْأَحَادِيثُ الْقَصَارُ۔ جامع و مفید
 کلام۔
 الْقَصِيرَةُ وَالْقُصُورَةُ وَالْمَقْصُورَةُ۔
 مِنَ النِّسَاءِ۔ وہ عورت جو گھر کے
 اندر مقید ہو اور اس کو گھر سے نکلنے
 کی اجازت نہ ہو۔ هُوَ ابْنُ عَمِّي
 قَصِيرَةٌ۔ وہ میرا قریب النسب
 بچا نہ دھائی ہے۔
 الْقَصَارُ۔ اسم بالغہ ہے۔ دھوبی۔
 الْأَقْصَرُ۔ اسم تفضیل۔ ج۔ اَقْصَرُ
 اَقْصَرُونَ۔ مَوْنٌ قَصْرِيٌّ۔ ج
 قُصْرٌ۔
 الْأَقْبَصَرُ۔ بعض عرب کا ایک بُت۔
 الْيَقْصَرُ وَالْمَقْصَرَةُ۔ دھوبی
 کا پڑا۔
 الْمَقْصِرُ وَالْمَقْصَرُ وَالْمَقْصَرَةُ۔
 شام کا وقت۔ ج۔ مَقْاصِرُ و
 مَقَاصِيرُ۔ مَقَاصِرُ الطَّرِيقِ
 راستہ کے اطراف و حدود۔ مَقْصَرَةٌ
 محاورہ ہے هُوَ جَارِيٌّ مَقَاصِرِيٌّ
 اس کی کوٹھی میری کوٹھی کے بالمقابل ہے
 الْمَقَاصِرُ۔ درخت کی جڑیں۔ واحد
 مَقْصُورٌ۔
 الْمَقْصُورَةُ۔ محفوظ و وسیع مکان۔ دُلسن کا
 پھیر کھٹ یا کمرہ مَقْصُورَةُ الدَّارِ
 کمرہ مجرہ۔ هُوَ ابْنُ عَمِّي مَقْصُورَةٌ
 وہ میرا قریبی بچا نہ دھائی ہے۔
 قَصْعٌ قَصْعَارٌ۔ پانی کے گھونٹ نکلنا۔



الْقَتْلَةَ يُظْفِرُهُ جُؤُنَا كَوْنَا خُنَّ سَ
 مَارَنَا قَصَعَتِ الرَّحَى الْحَبَّ - چک
 کا انے کو ریزہ ریزہ کرنا اور پیسٹا۔
 الرَّجُلُ - بے عزتی اور تحقیر کرنا۔
 قَصَعَ الرَّجُلُ أَوْهَا مَتَهُ - آدمی
 کے سر پر تحقیر مارنا۔

قَصَّعَ وَقَصَّعَ الْبَيْتَ۔ گھر کو لازم پکڑنا
- الْمَاءُ عَطَشَهُ۔ پانی کا کسی کی
پاس کو تکین دینا۔ کھا جاتا ہے۔
قَصَّعَ أَوْ قَصَّعَ الشَّيْطَانُ فِي
قَفَاةٍ۔ ممال آدمی غصہ ہوا اور بد خلقی
اختیار کی۔ قَصَّعَ أَوْ قَصَّعَ الْجَدُّ
بِالدَّمِ۔ زخم کا خون سے بھرنا۔
الْناَقَةُ بَجَرَتْهَا نَافَا۔ اپنی جگال کو
پسٹ کی طرف لوٹانا۔ قَصَّعَ الرَّجُلُ فِي
ثَوْبِهِ۔ کپڑوں میں لپیٹنا۔ قَصَّعَ
الْعُقْبُ۔ گوہ کا اپنے سوراخ کے منہ
کو بند کرنا۔ قَصَّعَ النَّدْحُ مِنَ الْأَرْضِ
کھیتی کار زمین سے نکلنا۔

قَصِصَ قَصْعًا (س) وَقَصَّصَ قَصَاصَةً
 دك، الغلام۔ لڑکے کا جوان ہونے
 میں در کرنا۔

تَقْصَعُ الْجُرُجَ الدِّمَ : خُم کا خون سے
 بھرنا۔ البَيْتَ : گھر کو لازم پکڑنا۔
 الْيَبُوبُوعُ الشَّرَابَ : چوہے کا مٹی
 کھود کر نکالنا۔

القَصْعَةُ: پيالہ ج. قِصْعٌ وَقِصَاعٌ
وَقِصَعَاتٌ.

الْقَصَّاءُ. بِأَلِفٍ بِنَاءٍ وَالْألفُ
 الْقُصَّةُ. ج. قُصَعٌ وَالْقُصَّةُ
 وَالْقُصَّاءُ وَالْقُصَّاعَةُ وَ
 الْقَاصِدَاءُ. ج. قَوَاصِمُ. وَالْقُصْبَاءُ
 جُكَلِيٌّ وَهُوَ كَابِلُ - الْغُلَامُ الْقَصِيمُ
 مُؤَنَّثٌ قَصِيمَةٌ - وَالْقَصِيمُ مُؤَنَّثٌ
 قَصِيمَةٌ وَقَصِيمٌ وَالْمَقْصُوحُ

مُؤَنَّثُ مَقْصُوعَةٍ معمول ہے۔ میں
 جوان ہونے والا۔
 اِمْقِصْعُ - مِنَ السَّيُوفِ بہت کاٹنے
 والی تلوار۔

تَصَفَّ قَصْفًا رَضِيَ الشَّيْءُ. ٹوڑنا۔
 الشَّيْءُ. ٹوٹنا۔ قَصْفًا وَقَصِيفًا
 الْوَعْدُ۔ سخت گرجنا۔ الْبَعِيرُ۔
 اونٹ کا دانت کڑکڑانا اور بڑبڑانا۔
 تَصَفَّ قَصْفًا تَصَوَّفًا عِيشَ وَعَشْرَتِ وَ
 کھانے پینے میں زیادہ مصروف ہونا۔
 تَصِفَّ قَصْفًا رَسَ الْعُودُ۔ لکڑی کا
 کمزور و نازک ہونا۔ صَفَّ أَتَصَفَّ
 وَقَصِيفٌ۔ الْمَبْتِئُ۔ نباتات کا
 زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے جھک
 جانا۔ الرَّجُلُ۔ آدمی کا کمزور و نازک
 ہونا۔ الْوُضْءُ۔ نیزہ کا عرس میں چر
 جانا۔ النَّابُ۔ دانت کا آدھا
 ٹوٹنا۔ الْقَنَاقَةُ۔ نیزہ کا ٹوٹنا اور
 علیحدہ نہ ہونا۔

تَصَفَّہٗ۔ کسی چیز کو توڑنا۔
 أَتَصَفَّ الْعُودُ۔ لکڑی کا پتلا نرم ہونا۔
 أَقْصَفَ عَنِ الشَّيْءِ۔ کسی چیز سے
 علیحدہ ہونا اور عاجز ہو کر اس کو
 چھوڑ دینا۔

تَقَصَّفَ قَوْمًا - عَلَيْهِ الْقَوْمُ - کسی
چیز پر قوم کا جمع کرنا - القوم: کسی
جھگڑے اور دھمکی میں قوم کا شور کرنا۔
تَقَاَصَفَ الْقَوْمُ - قوم کا جمع ہونا۔
بھٹ کرنا۔

انْقَصَفَ لُوطًا - السَّيْلُ بِيَلَابِهَا
جاری ہونا۔ القومُ عندهُ کسی چیز کو
ناکامی و مستی کی وجہ سے چھوڑنا۔
عَلَيْهِ - لگاتار واقع ہونا۔
الْقَصْفُ وَالْقُصُوفُ عِشْرَتِ و
کھانے پینے میں افراط سے کام لینا۔

القَصْفُ . باج کی آواز کہیں کا اعلان
شور و شر . القُصُوفُ والقَصْفَةُ .
اونٹ کی بلبلاہٹ اور اس کے دانٹوں
کی رگڑ کی آواز

القَصْفَةُ: مقابلے کے وقت لشکر کا ریلہ۔
 سیڑھی کا ایک پایہ۔ مِنْ الْقَوْمِ قوم کا
 ہجوم و بھیڑ کرنا۔ ج. قَصَفٌ وَقُصْفَانٌ۔
 القَاصِيفُ (فاعل) رَعْدٌ قَاصِيفٌ۔ سخت
 آواز والی گرج۔ رِيحٌ قَاصِيفٌ او
 قَاصِيفَةٌ: نہایت شدید تیز ہوا۔
 القَصِيفُ: بلندی سے جلدی کرنے والا
 شخص۔ القَصِيفُ البَطْنُ۔ بھوک
 کے وقت ڈھبلا ہونے والا اور برداشت
 نہ کرنے والا شخص۔ و القَصِيفُ
 نصفانصف میں سے ٹوٹا ہوا۔
 القَصِيفُ: درخت کا علویہ شدہ
 حُب۔

الْأَقْصَفُ. وہ شخص جس کی پسلیاں آدھی ٹوٹ گئی ہوں۔

المَقْصُوفُ: کھیل کود اور کھانے پینے کی
جگہ۔ ج۔ مَقْاصِفُ (مولدہ)
قَصْفُ الشَّيْءِ: کسی چیز کو توڑنا۔ بِالْجَرِّ
کتنے کے لئے کو ملانا۔

تَقْصِصْ آثَرَهُ: کسی کی پیروی کرنا۔
 کَلَامَهُ: حفظ کر لینا۔ حَیْثُ
 قَصَاصٌ وَفَصَاحٌ: جہت
 سائب۔ اَسَدٌ وَجَلٌ فَصَاحٌ
 ج۔ قَبَسٌ فَعِیْ وَفَصَاحَاتٌ وَ
 قَصُصٌ وَفَصُصَةٌ وَفَصَاصٌ
 مٹایا کوتاہ قد شیر بادمی۔

القَصْصُ. سینے کے بال اگنے کا مقام۔
آواز۔

قَصَلَ قَصْلًا (رض)، الشئ۔ کسی چیز کو کاٹنا۔ فاعل قاصِلٌ۔ اور مفعول قَصِيلٌ وَمَقْصُولٌ۔ الحِنْطَةُ

گیہوں کی یلوں کے ذریعہ بھوسے سے
 علیحدہ کرنا۔ الدابة وعليها جانور
 کو چارہ دینا۔ جو کا پودہ کھلانا۔ عتقه
 گردن پر مارنا۔
 تقصّل والتقصّل منقطع ہونا۔
 اقتصّل الشئ کسی چیز کو کاٹنا۔ الشئ
 کٹ جانا۔
 اقتصّال بہ کسی پر قبضہ کرنا۔ بالمکان
 کسی جگہ قیام کرنا۔
 القصل والقصل والقصال والقصال
 گیہوں کے دانے نکالنے کے بعد جو فضلہ
 پھینک دیا جاتا ہے یا وہ حصہ جس کو
 دوبارہ گالا جائے۔ القصل الحق
 وہ چیز جس میں کوئی خوبی نہ ہو ضعیف
 مؤنت۔ قصلة
 القصلة والقصلة اڈوں کا کلہ۔
 سيف قاصل وقصّال وقصّل
 بہت کاٹنے والی تلوار۔ لسان
 مقصّل تیز طرز زبان۔ القصّال
 شیر۔
 القصيل وہ سبز جو چپکنے سے قبل
 جانوروں کو کھلانے کے لیے کاٹ لیے
 جاتے ہیں۔ جماعت۔ ج۔ قصلان
 المقصّل ہلاک کرنے کا ایک آلہ۔
 اس کے سرے پر ایک چھرا ہوتا ہے
 جو مجرم کے سر پر گرا کر اس کو کاٹ
 ڈالتا ہے۔
 قصم قصماً (ض) الشئ توڑنا۔
 الرجل ہلاک کرنا۔ فلان واپس
 ہونا اور اپنے قصد کی جگہ پر نہ پہنچنا۔
 قصم الله ظمها الطامير خدا
 ظالم کی کمر توڑ دے۔ قصم الله
 عمر الکافر خدا کا فرک عمر تمام
 کر دے۔
 قصمت قصماً (س) سنّہ دانت کا

چر جانا۔
 تقصّم والتقصّم ٹوٹنا۔
 القصم سنانے کے دانتوں کا نصف
 حصہ ٹوٹنا۔ لیلوں کے اندر۔ واحد
 قصمہ
 القصمة والقصمة ٹکڑا۔
 القصمة اسم مفعول سے بھی ٹکڑا۔ تلت
 يحمي قاصمة الظفر ان پر ہلاکی
 نازل ہوئی۔
 القصم والقصيم جلدی ٹوٹ جانے
 والا۔ ضعیف
 القصيمة قصیم کی مؤنت۔ وہ ریتی جگہ
 جو کثرت سے غذا آگاتی ہو۔ ج۔
 قصيم وقصم وقصائم
 ذهبوا يحطون في القصيم
 وہ غضا کے جنگل میں ایندھن لینے گئے
 القصم ہر چیز کو توڑ دینے والا۔
 الاقصم جس کے سامنے کے آدھے
 دانت ٹوٹ گئے ہوں۔ مؤنت قصماء
 ج۔ قصم
 القصماء من المعز۔ بیرونی سینگ
 ٹوٹی بکری۔
 قصم الرجل چلنے میں قریب قریب
 قدم رکھنا۔ قصمته بچھاڑنا۔
 الشئ کاٹنا۔ الطعام تمام کھا
 جانا۔ وتقصم القصيل اونٹ
 کے بچے کو قصم کا مرض لاحق ہونا۔
 وہ ایک بیماری ہے جس سے اونٹ کے
 بچے مرجاتے ہیں القصيل والقصم
 سخت آدمی۔ القصيل بشیر۔
 التهمة القصملى اس کو شدت
 کے ساتھ نغمہ بنایا۔
 قصا بقصوا قصوا وقصوا وقصا
 قصاء وقصى لقصى قصا
 المکان دور ہونا۔ الرجل عین

القوم دور ہونا۔ جدائی اختیار کرنا۔
 قصى بقصوا قصوا۔ التناقة او
 الشاقة ناقہ یا بکری کے کان کا کنارہ
 قطع کرنا۔ قصى تقصية۔ التناقة
 کان کا تھوڑا سا کنارہ کاٹنا۔
 الاظفار ناخن تراشنا۔ مقاصاة
 الرجل کسی کو دور کرنا۔ محاورہ ہے
 قاصى قصوته اس نے مجھ
 سے دوری اختیار کی۔ میں اس سے
 زیادہ دور ہو گیا۔ یہ افعال مفالہ میں
 سے ہے۔ هلم اقاصيك آیتنا
 ابعث من الشر۔ آؤ ہم مقابلہ کریں
 کہ ہم میں سے کون شر سے دور ہے۔
 اقصى فلانا عنه کسی کو کسی چیز سے
 دور کر دینا۔ الشئ کسی چیز کی انتہاء
 تک پہنچانا۔ بولا جاتا ہے۔ تزلنا
 منزلاً لا يقصيه البصر ہم ایسی
 منزل پر اترے کہ نظر اس کی انتہاء تک
 نہیں پہنچ سکتی۔
 تقصى تقصياً۔ دور ہونا۔ واستقصى
 المسئلة وفيها کسی مسئلہ کی
 بحث میں انتہاء کو پہنچنا۔ تقصاهم
 ان کو انتہاء سے بلانا۔
 القصا بعید نسب۔ جانب۔ خطبتی
 القصا مجھ سے دور ہوجا۔ ذهبنت
 قصا میں اس کی طرف چلا۔
 القصى اونٹنی کے کان کا ذرا سا
 کنارہ کاٹنا۔ القصاء مکان کا صحن
 القصوة کان کے اوپر کی طرف داغ۔
 القصى بعید۔ دور۔ ج۔ أقصاء مؤنت
 قصية ج۔ قصایا۔ رميت
 المرمى القصى تو گمان اور تاویل
 میں بہت دور پہنچ گیا۔ القصية
 عمدہ نسل کی شریف اونٹنی در ذیل اونٹنی
 اصدا میں سے ہے)

الْقَاصِي (فاعل) بعید۔ ج۔ قَاصُونَ و
أَقْصَاءُ۔

الْقَاصِيَةُ: مؤنث قَاصِي: طرف۔ نَعَجَةٌ:
قَاصِيَةٌ: بہت بڑھی بھیڑ۔

الْقَاصِيَةُ مِنَ الشَّاءِ: گدے
علحدہ ہونے والی بکری۔

الْأَقْصَى: مؤنث قَصَوَاءُ وَالْمَقْصُودُ
وَالْمَقْصِي وَالْمَقْصِي مِنَ الْجَمَالِ

وہ اونٹ جس کے کان کا تھوڑا سا
کنارہ کاٹ دیا گیا ہو۔ شَاةٌ مَقْصُوءَةٌ

وَمُقَصَّاةٌ: کان کا کنارہ کٹی ہوئی
بکری۔ الْأَقْصَى: اسم تفضیل۔ انتہائی

دور۔ ج۔ آقَاصٍ۔ مؤنث قَصَوَى
وَقُصْبِيَا۔

الْقُصَوَى وَالْقُصْبِيَا: وادی کا کنارہ۔
انتہائی دور چیز۔

قَصَّ قَصَادَنَ، الشَّيْءَ: سوراخ کرنا۔
باریک کرنا۔ الْوَتْدَ: میخ اکھاڑنا۔

الْحَايِطَ: دیوار کو سختی سے ڈھانا۔
عَلَيْهِمُ الْخَيْلُ: کسی قوم پر سواروں

کو بھیجنا اور منتشر کرنا۔ الطَّعَامُ:
اس میں شکر یا قدر کی قسم سے کوئی

خشک چیز ملانا۔
قَصَّ قَصِيضًا رَضَ، السَّيْرُ أَوْ الْوَتْدَ:

ٹوٹنے کی سی آواز آنا۔ نَزَطَ طَانَا:
قَصَّ قَصَصًا رَضَ، الْمَكَانُ أَوْ الطَّعَامُ

چھوٹی کنکریاں گر پڑیں۔ عَلَيْهِ
الْمَضْجَعُ: خوابگاہ کا بلند و سخت

ہونا۔ قَصَّ الدَّجْلُ: آدمی کا طہین
سے نہ سونا۔ أَقْصَلَ الْمَكَانُ وَالطَّعَامُ

کنکریوں کا مل جانا۔ الْمَضْجَعُ:
خوابگاہ کا سخت ہونا۔ أَقْصَى عَلَيْهِ

الْمَضْجَعُ: خوابگاہ کا خاک آلود اور
سخت ہونا۔ أَقْصَى عَلَيْهِ السَّهْمُ:

اس پر غم نازل ہوا۔ أَقْصَى اللَّهُ

مَضْجَعَهُ: خدا تعالیٰ کسی کی خوابگاہ
کو سخت کرنا۔ الرَّجُلُ: معللے کی

باریکیوں کے پیچھے لگنا۔ ادنیٰ چیزوں
کے درپے ہو جانا۔

الْقَصَّ: ٹوٹنا۔ الْجِدَارُ: دیوار کا پھٹ
جانا۔ گر پڑنا۔ انْقَضَتِ الْخَيْلُ

عَلَى الْقَوْمِ: گھوڑوں کا قوم پر پھیل
جانا۔ بولا جاتا ہے۔ قَضَضْنَا عَلَيْهِمُ

الْخَيْلُ فَأَنْقَضَتْ عَلَيْهِمُ: ہم
نے ان پر گھوڑے ڈالے پس وہ ان

پر جا پڑے۔ وَتَقْضُضُ الطَّائِدُ:
اترنے کے لیے پرندہ کا نیچے کی طرف

مائل ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ تَقْضِي
تَقْضِيَا: یعنی دوسرے ضاد کو یار سے

تبدیل کر لیا جاتا ہے جیسا کہ تَقْضِي
میں تَقْضِي کہا جاتا ہے۔ بعض نے

کہا ہے کہ قَصَّ تَفْعَلٌ میں دوسرے
ضاد کو یار سے تبدیل کیجے بغیر

استعمال ہی نہیں ہوتا۔
انْقَاضَ الْجِدَارُ: دیوار کا گر پڑنا۔

اسْتَقْضَى الْمَضْجَعُ: خوابگاہ کو سخت
پایا۔ الطَّعَامُ وَالْمَكَانُ: کھانے

یا جگہ میں کنکریوں کا زیادہ ہونا۔
الْهَمُّ: غم کے ٹوٹنے کی خواہش

کرنا۔ الْقَصُّ وَالْقَضُّ: مصدر
ہیں چھوٹی کنکریاں اور ان کے ریزے

الْقَضُّ: مٹی جو فرش پر چڑھ
جائے۔

الْقَصُّ وَالْقَضِيضُ وَالْأَقْصُ: جس میں
کنکریاں ہوں۔ محاورہ ہے۔ جَاءَ

الْقَوْمُ قَضْرُهُمْ وَقِصْرُهُمْ و
قَصْرُهُمْ وَقِصْرُهُمْ وَقَضْرُهُمْ

وَقَضْرُهُمْ وَيَقْضِيضُهُمْ
تمام قوم آگئی۔ قَصَّ وَغَيْرُهُ مَقْصُوبٌ

پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مصدر یا

حال مراد لیا گیا ہے۔ یعنی قوم جمع ہو کر
آئی۔ اور مرفوع پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ

اس کو كَلْمُهُمُ کے قائم مقام کیا
گیا ہے۔

الْقَصَّةُ: اسم مرۃ ہے۔ قِصَاصٌ کا واحد
چٹانیں جو ایک دوسرے پر چڑھی

ہوئی ہوں۔ چھوٹا ٹیلہ۔ چھوٹی کنکری
یا اس کا ریزہ۔ کسی چیز کا بقیہ۔ دھاگوں

کا چھوٹا گولہ۔ اَرْضٌ قَصْدَةٌ: کنکری
والی زمین۔

الْقِصَّةُ: اسم جنس ہے۔ چھوٹی کنکریاں۔
ج۔ قِصَّاتٌ۔

الْقُصَّةُ وَالْقُصَّةُ: عیب۔ نقص۔
قِصِيٌّ يَقْضُ قِصَاصًا رَضَ، الشَّيْءَ: کھانا

۔ السِّقَاءُ: مشک کا فاسد ہونا اور
بدبودار ہونا۔ الْعَبْنُ: آنکھ کا سُرخ

ہونا۔ الثَّوْبُ أَوْ الْجُبْلُ: پرانا اور
بوسیدہ ہونا۔ قِصَاً وَقِصَاةً:

حَسْبُهُ: نسب کا فاسد و خراب
ہونا۔

أَقْصَاةً: کھانا۔ تَقْضَاً مِنْ فُلَانٍ أَنْ
يُزَوِّجَهُ: نسب کو حقیر جانتے ہوئے

کسی سے نکاح نہ کرنا۔
الْقَصَاةُ وَالْقَصَاةُ: عیب، فساد۔ عَارُ

الْقِصِي: خراب و بدبودار۔ سِقَاءُ
قِصِي: بدبودار مشک۔ قِرْبَةٌ:

قِصَّةٌ: بدبودار مشکیزہ۔
قَضَبَ قَضْبًا رَضَ، الشَّيْءَ: کاٹنا۔

الرَّجُلُ: چھڑی سے مارنا۔ الدَّاقَةُ:
سدرھانے سے قبل ناقہ پر سوار ہونا۔

قَضَبَ الشَّيْءَ بِكَرَّةٍ مَكْرَةً: کرنا۔
الْمَكْرَمُ: انگور کی شاخیں فصل بیج

میں کاٹنا۔ وَتَقْضَبَ شَعَاعٌ
الشَّمْسُ: سورج کی شعاعوں کا دراز

ہونا۔ تَقْضَبَ الشَّيْءَ بِكَرَّةٍ مَكْرَةً



ہونا۔

أَقْضَبَتِ الْأَرْضُ۔ زمین میں زیادہ پودے
سبزی ہونا۔

لَا تُقْضَبُ مِنْ قَطْعِ هَوْنٍ۔ انگوٹھ میں
مکانہ جگہ سے منتقل ہونا۔

لَا تُقْضَبُ الشَّيْءُ كَالْطَّنَا۔ الکلام فی
البدیعہ کہنا۔ الناقۃ۔ تربیت

دینے سے پہلے ناقہ پر سوار ہونا۔
فلانا۔ کسی شخص کو ایسے کام کی

تکلیف دینا جس کو کرنے کے وہ قابل
نہ ہوا ہو۔

الْقَضَبُ۔ ہر وہ درخت جس کی شاخیں لمبی
ہوں کر ٹلک جائیں۔ درخت کا نام جس

سے کمائیں بنائی جاتی ہیں۔ کٹی ہوئی
شاخیں۔ واحد قَضَبٌ ہے۔

القَضَبَةُ۔ جر۔ قَضَبَاتٌ۔ شاخ۔ نبع
درخت کا تیر۔ جر۔ قَضَبٌ۔ وہ سبزی

جو تازہ کاٹ کر کھائی جائے۔
القَضَبَةُ۔ اونٹوں یا بکریوں کا گلہ۔ ہلکا اور

نازک آدمی یا ناقہ۔
القَضَبُ۔ جر۔ قَضَبَانٌ وَقَضَبَانٌ۔

کاٹی ہوئی شاخ۔ وہ ناقہ جس کو سدھایا
نہ گیا ہو۔ جر۔ قَضَبٌ۔ بہت کاٹنے

والی تلوار۔ کمان جو بغیر چری ہوئی شاخ
سے بنائی گئی ہو۔ سَيْفٌ قَاضِبٌ

جر۔ قَوَاضِبٌ وَقَضَابٌ و
قَضَابٌ۔ بہت تیزی

سے کاٹنے والی۔ رَجُلٌ قَضَابٌ
معاملات کو طے کرنے والا اور ان پر

قدرت پانے والا۔
الْقَاضِبَةُ۔ قاضی کی مؤنت۔ مَا فِي

فِيهِ قَاضِبَةٌ۔ اس کے منہ میں
دانت نہیں۔

الْقَضَابَةُ۔ کاٹی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔
الْمُقَضَّبُ۔ درانتی۔

الْمُقَضَّبُ۔ درانتی۔ بہت کاٹنے والی چیز
أَرْضٌ مُقَضَّبَةٌ۔ وہ زمین جو زیادہ

سبز اگاتی ہو۔
الْمُقَضَّبَةُ۔ سبزی اگنے کی جگہ۔ جر

مَقَاضِبٌ وَمَقَاضِيْبٌ۔
الْمُقَضَّبُ۔ کسی کام کو اچھی طرح کرنے

کے قابل ہونے سے پہلے مکلف کیا ہوا
شعری بحروں میں سے ایک بحر کا نام۔

مِنَ الشَّعْرِ وَالْكَلامِ۔ فی البدیہ
کہا ہوا شعر یا کلام۔

قَضَعَهُ قَضَعَارٌ۔ کسی پر غالب آنا۔
لَا تُقْضَعُ عَنْهُ۔ کسی چیز سے دور ہونا۔

لَا تُقْضَعُ وَتُقْضَعُ۔ ٹکڑے ٹکڑے
ہونا۔ متفرق ہونا۔ الْقَضَعُ وَالْقَضَاعُ

والتَّقْضِيْعُ۔ آدمی کے پیٹ کا درد
اور اس میں مروڑ ہونا۔

القَضَاعُ وَالْقَضَاعَةُ۔ آٹے کا باریک
غبار۔ دیوار کی جڑ سے چھڑی ہوئی چیز۔

القَضَاعَةُ۔ چیتا۔
القَضَعُ۔ عمر آدمی جس کے دانت گر

چکے ہوں۔
قَضَفَ قَضْفًا وَقَضْفًا وَقَضْفَةً۔

کمزور اور دُلا ہونا۔ صفت قَضِيفٌ
ہے۔ جر۔ قَضَافٌ وَقَضَفَاتٌ و

قَضَفَاءٌ۔
الْقَضَفُ۔ ٹوٹ جانا۔

القَضَفُ۔ رقیق پتھر۔
القَضْفَةُ۔ ٹیلہ جو پتھر کی طرح دکھائی

دے۔ زمین کا ٹکڑا جو اوپر کو اٹھا ہوا
اور قدرے لمبا ہو۔ بھٹ تیز کی طرح

کا ایک پرندہ۔ جر۔ قَضَفٌ و
قَضَافٌ وَقَضَفَانٌ وَقَضَفَانٌ

الْفَضْفَةُ۔ ریت کا ٹیلہ جو درمیان میں
سے ٹوٹا ہوا اور جُلا ہو۔

الْقَضِيفَةُ مِنَ النِّسَاءِ۔ لاغر دم گوشت

والی عورت۔ جر۔ قَضَافٌ۔

قَضَقَصَ قَضَقَصَةً۔ الْعَظْمُ۔ ہڈی
کا ٹوٹے وقت آواز دینا۔ الْأَسَدُ

فَرِيسَتُهُ۔ شیر کا اپنے شکار کو تورتا
اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

تَقَضَّقَصَ۔ ٹوٹ۔ متفرق ہونا۔
الْفَضَقَانُ وَالْفَضَقَانُ وَالْفَضَقَانُ

شیر۔
الْقَضَقَانُ۔ زمین کا ہموار حصہ۔

قَضَمَ وَقَضَمَ قَضْمًا دَمَسَ، الشَّيْءُ
دانتوں کی ٹوک سے جھا کر کھانا۔

مَعَاوَرَهُ هُوَ يَفْضَمُ الدُّنْيَا
قَضْمًا۔ وہ دنیا میں رغبت نہیں رکھتا

اور حقیر چیز پر قانع ہے۔
قَضَمْتُ قَضْمًا (س) السِّنُّ۔ دانت کا

چر جانا یا اس کے کنارہ کا ٹوٹ جانا
قَضَمَ الرَّجُلُ۔ آدمی کا ٹوٹے ہوئے

دانت والا ہونا۔ قَضَمَ السَّيْفُ
تلوار کا ایک عرصہ تک پڑے رہنے سے

کند ہو جانا۔
قَاضَمَ مُقَاضِمَةً۔ کسی چیز کے خریدنے یا

بیچنے کے بعد پھوٹی چیز لینا۔ یہ خرید و
فروخت نہیں ہوتا ہے کہ ایک ایک

گٹھڑی خریدی جاتی ہے اور اکٹھی گانٹھ
نہیں خریدی جاتی۔

أَقْضَمَ الدَّابَّةُ جَانُورًا كَوَاجِبًا
قَاضِمًا الْقَوْمَ۔ زمانہ قحط میں

تھوڑا سا توشہ حاصل کرنا۔
الْقَضْمُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالْوَجَالِ و

السُّيُوفِ۔ کنارے گرے ہوئے
دانت اور ایسے دانت والا آدمی۔ کند

دھار والی تلوار۔
الْقَضْمُ۔ ٹوٹے ہوئے اطراف دندان والا۔

مُؤْنَتٌ قَضْمَاءٌ۔ جر۔ قَضْمٌ۔
القَضْمُ۔ تلوار۔ قَضْمٌ کی جمع مصدر۔



الْقَضْمَةُ وَالْقَضَامُ وَالْمَقْضَمُ. وہ چیز جو دانتوں کے کناروں سے کاٹی جائے۔
بولاجاتا ہے۔ مَا دُتُّ قَضْمَةً وَ قَضَامًا وَمَقْضَمًا۔ میں نے کوئی چیز دانتوں سے نہیں کاٹی۔

الْقَضِيمُ۔ وہ چیز جو اطراف و انداز سے کاٹی جائے۔ دھار گری ہوئی تلوار۔ گھڑی۔ خط۔ رقعہ۔ وَالْقَضِيمَةُ وہ چڑے کا فرش جو جلا دے قتل کرنے کے وقت مجرم کے نیچے بچھایا جاتا تھا تاکہ خون ادھر ادھر نہ رہے۔ ادھڑی کا چڑا۔ سفید کھال جس پر لکھا جاتا ہے۔ جانور کے لیے جو کا چارہ چاندی۔ جہ۔ قَضْمٌ وَقَضْمٌ وَأَقْضِمَةٌ۔

الْقَضَامُ۔ کھجور کا وہ درخت جو زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے کم اور خشک پھل والا ہو گیا ہو۔

قَضَى يَقْضِي قَضَاءً۔ الشَّيْءُ مَفْضُوطٌ

کے ساتھ بنانا اور اندازہ کرنا۔ حاجتہ۔ ضرورت کو پورا کرنا اور اس سے فارغ ہونا۔ وَطَرَةٌ۔ اپنی مراد کو پہنچنا۔ عَبْرَتُهُ۔ سر میں جس قدر آنسو ہوں ان کو نکال ڈالنا۔ الدَّيْنِ قَرْضٍ اَوْ كَرَاهٍ۔ السَّلْوَةُ نماز کو ادا کرنا۔ الْأَمْرُ إِلَيْهِ۔

معاملہ کسی تک پہنچانا۔ الْعَهْدُ نَافِذٌ كَرْنًا۔ عَلَيْهِ عَهْدٌ۔ کسی کو وصیت کرنا۔ قَضَى الرَّجُلُ وَ قَضَى نَحْبَهُ وَ قَضَى أَجَلَهُ وَ قَضَى عَلَيْهِ۔ مرجانا۔ ضَرْبُهُ قَضِيٌّ عَلَيْهِ۔ اس کو مارا اور وہ مر گیا۔ قَضَى مِنْهُ الْعَجَبُ۔ اس سے انتہائی تعجب کیا حتیٰ کہ تعجب کا حق ادا کر دیا۔ لَا أَقْضِي مِنْهُ الْعَجَبُ

معاملہ کے بڑا ہونے کے سبب پورا تعجب کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قَضَى يَقْضِي قَضَاءً اَوْ قَضِيًّا وَ قَضِيَّةً۔ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فَيَصِلُ كَرْنًا۔ الْأَمْرُ لَهُ اَوْ عَلَيْهِ۔ کسی معاملے کے حق میں یا خلاف فیصلہ کرنا۔ الشَّيْءُ۔ اِطْلَاعٌ دِينًا اَوْ رَافِعٌ كَرْنًا۔

قَضَى تَقْضِيَّةً وَقَضَاءً۔ دَوْرُهُ اپنی مراد حاصل کرنا۔ الْأَمْرُ۔ کسی معاملے کو جاری و نافذ کرنا۔ فَلَانًا منصف بنانا۔ تَقْضِيَّةً۔ مرجانا۔ قَاضِيٌ مُقَاضَاةً۔ فَلَانًا إِلَى الْحَاكِمِ حَاكِمٍ كَيْسِي۔ قَاضَاةً حَاكِمٍ كَيْسِي۔ قَاضَاةً عَلَى مَالٍ۔ کسی سے مال پر صلح کر لینا۔ تَقْضَى۔ الْبَايَعَةُ۔ باز کا کرنا۔ تَقْضَى كِي اصل تَقْضِضٌ تَقِي تَقْضِيفٌ كِي غرض سے آخری ضاد کو یا سے تبدیل کر لیا گیا ہے۔ وَ الْقَضَى الشَّيْءُ۔ فَنَافِذًا۔

نابود ہو جانا۔ گذر جانا۔ تَقَاضِيًا إِلَى الْحَاكِمِ۔ دو شخصوں کا حاکم کے پاس فیصلہ کے لیے جانا۔ تَقَاضَاةً الدَّيْنِ وَ غَيْرُهُ وَ بِالْأَدْيَانِ۔ قَرْضٍ مَالِكًا اَوْ اس پر قبضہ کرنا۔

قَضَى اَوْ قَضِيَّةً ا۔ الْحَالُ كَذَا۔ حالت کا اس طرح تقاضا کرنا۔ اِقْضَاةً الدَّيْنِ وَ غَيْرُهُ۔ قَرْضٍ مَالِكًا۔ مطالبہ کرنا۔ اِقْضَى الْأَمْرُ الْوُجُوبُ۔ امر کا وجوب کو چاہنا اور زور و بر دلالت کرنا۔ اِفْعَلْ مَا يَقْضِيهِ كَرْمٌ۔ جو تمہارے کرم کا تقاضا ہو وہ کرو۔

اِسْتَقْضَى اِسْتَقْضَاءً ا۔ فَلَانًا الدَّيْنِ کسی سے اداء قرض کا مطالبہ کرنا۔

اِسْتَقْضَى۔ السُّلْطَانُ فَلَانًا عَيْنًا۔ بادشاہ کا کسی کو قاضی مقرر کرنا۔ اِسْتَقْضَاهُ۔ کسی کو قضا کے لیے طلب کرنا۔ اِسْتَقْضَى فَلَانٌ۔ کسی کو قاضی بنایا جانا۔

الْقَضَى وَالْقَضَاءُ۔ حُكْمٌ اِدَائِيٌّ جہ اَقْضِيَّةً۔

الْقَضَى۔ موت۔ رَجُلٌ قَضِيٌّ۔ جلدی فیصلہ کرنے والا۔

الْقَضِيَّةُ۔ قضا کا اسم۔ اہل منطق کے نزدیک وہ مقولہ جس کی تصدیق یا تکذیب ہو سکے۔ جہ۔ قَضَايَا۔

الْقَضَّةُ۔ ایک ترش بوٹی۔ جہ۔ قَضَى وَقَضَاتٌ وَقِضُونٌ۔

الْقَاضِيُّ۔ حاکم شرعی۔ جہ۔ قُضَاةٌ۔

قَاضِي الْقَضَاةِ جِيفِ جِسْطَس۔

سِخْرٌ قَاضٍ۔ زہر قاتل۔

الْقَاضِيَّةُ۔ قاضی کی موت۔ موت۔ اَتَتْ عَلَيْهِ الْقَاضِيَّةُ۔ اس کو موت آگئی۔

الْقَضَاءُ۔ قاضی کا مبالغہ مضبوط ذرہ۔ قَطَّ قَطًّا (ن) وَ اِقْطَطَ۔ اِقْلَمَ وَ نَحَوَ۔ قلم وغیرہ کو قُطِّ دینا۔ الْبَيْطَارُ حَافِظُ الدَّابَّةِ۔ جانور کے کھڑتراشنا اور ہموار کرنا۔

قَطَّ قُطُوطًا وَقَطًّا وَقُطَّرَنَ (ض)۔

الْبَيْعَةُ۔ بھاؤ چڑھ جانا۔ مہنگا ہونا۔

صِفَتٌ قَطٌّ وَقَاطٌ وَقَاطِطٌ۔ قَطٌّ وَقِطَطٌ قَطَطًا وَقَطَّاطَةً (س)

الشَّعْرُ۔ بالوں کا گھونگھریالے اور چھوٹا ہونا۔ صِفَتٌ قَطٌّ وَقُطُّطٌ۔

قَطَّطَ الْخَوَاطُ الْحَشْبَةَ۔ بڑھئی کا کڑی کو تراش کر ہموار کرنا۔

اِقْطَطَ وَالْقَطُّ الشَّيْءُ۔ منقطع ہونا۔

قَطَّ۔ یہ حَسْبُ کے معنی میں بھی ہوتا ہے

جیسے قَطِيٌّ وَقَطُكَ وَقَطُّ زَيْدٍ
 دِلْهُمْ۔ جیسے کہ حَسْبِي وَحَسْبُ
 زَيْدٍ دِرْهُمْ۔ کہا جاتا ہے۔ مگر
 قَطُّ بنی ہے اور حَسْبُ معرب ہے
 کبھی قَطُّ اسم فعل بمعنی یکنی ہوتا
 ہے تو نون وقایہ برائے حفاظت
 بناء علی سکون اضافہ کر کے
 قَطُّ بنی کہا جاتا ہے۔ اگر تقلیل ظاہر
 کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو تخفیف
 کرتے ہوئے آخر کو ساکن کرتے ہیں
 جیسے مَا عَتَدْنِي إِلَّا هَذَا قَطُّ۔
 میرے پاس صرف یہی ہے۔ اور اگر
 قط کے بعد ہمزہ وصل آجائے تو آخر
 کو کسرہ دیا جاتا ہے جیسے مَا عَلِمْتُ
 إِلَّا هَذَا قَطِ الدَّهْرِ۔ اور کبھی تیسین
 لفظ کے لیے اس پر فاء داخل ہو
 جاتی ہے جیسے رَأَيْتُهُ صَرَّةً
 قَطُّ۔ یعنی صرف ایک ہی مرتبہ دیکھا۔
 قَطُّ ظرف زمان ہے۔ احاطہ زمان ماضی
 کے لیے اور یہ منفی کے لیے خاص ہے
 جیسے مَا فَعَلْتُ هَذَا قَطُّ۔ میں نے
 اپنی گذشتہ عمر یہ کبھی نہیں کیا۔ اس کو
 کبھی قَطُّ اور قَطُّ بھی بولتے ہیں۔
 القَطُّ۔ جر۔ قَطَاً وَقِطْطَةً۔ بتی
 قَطُّ الزَّيَادِ۔ لفظ زیاد کی طرف
 مراجعت کی جائے۔ واحد قِطْلَةٌ ہے
 القِطُّ۔ قسمت، رات کی ایک گھڑی
 حساب کا جبر۔ انعام کا چیک۔ ہنڈی
 جر۔ قُطُوطٌ۔ رَجُلٌ قَطٌّ وَقِطْطٌ۔
 وہ آدمی جس کے بال جھوٹے اور
 گھونگھریالے ہوں۔ جر۔ قُطُوتٌ و
 قَطَاً وَأَقْطَاً وَقِطْطُوتٌ۔
 اِمْرَأَةٌ قِطْلَةٌ وَقِطْطٌ گھونگھریالے
 بالوں وال عورت۔ قَطَاً اسم فعل
 ہے بمعنی حَسِبُ القُطُوطِي۔ وہ شخص

جو قریب قریب قدم رکھ کر چلتا ہو۔
 القِطَاطُ۔ بالوں کا گھونگھریالا پن۔ جانور
 کے کمر کا دائرہ۔ پہاڑ کا کنارہ۔ وہ
 نظیر جس کی تقلیل کی جائے۔ جر
 آقِطْلَةٌ وَالْقِطِيطَةُ۔ غار کا بند
 کنارہ۔ جر۔ قَطَايِطُ۔ محاورہ ہے
 جَاءَتْ النَّجْلُ قَطَايِطُ گھوڑے
 گردہ در گردہ آئے۔
 القِطَاطُ۔ اسم بالغ ہے۔ خرا دی۔
 يَسْعُرُ قَاطٌ وَقَاطٌ وَقِطْطُوطٌ۔
 ہنکا بھاؤ۔
 القِطْطُ وَالْمِطْطُوطُ۔ وہ بڑی یا کڑی
 جس پر قلم کو قط لگایا جائے۔
 القِطْطُ۔ گھوڑے کی پسلیوں کا پچلا حصہ۔
 علمدہ ہونے کی جگہ۔
 قُطْبُ قُطْبًا رَضٍ، الشَّيْءُ كَاثُنًا۔ جمع
 کرنا۔ الشَّرَابُ۔ پینے کی چیز کو ملانا۔
 - الإِنَاءُ۔ برتن کو بھرنا۔ الوَجَلُ
 کسی کو غصہ میں لانا۔ الْجَوَائِقُ۔
 گون کے دو حصوں کو ایک دوسرے میں
 داخل کرنا۔ پھر موڑ کر دونوں کو جمع کرنا۔
 القومُ۔ جمع ہونا۔
 قُطْبُ قُطْبًا وَقُطُوبًا رَضٍ، وَقُطْبُ
 الوَجَلُ۔ ماتھے پر شکن ڈالنا۔
 ترش روئی کرنا۔ صفت قُطْبُ ہے
 قُطْبُ الشَّرَابِ۔ پینے کی چیز میں
 کوئی چیز ملانا۔
 أَقْطَبُ الشَّرَابِ۔ ملانا۔ القومُ۔ جمع ہونا۔
 الْقُطْبُ وَالْقِطْبُ وَالْقُطْبُ و
 الْقُطْبُ۔ جر۔ أَقْطَابُ وَالْقُطْبَةُ
 جر۔ قُطْبُ۔ چکی کی آہنی میخ جس پر
 چکی گردش کرتی ہے۔
 الْقُطْبُ۔ ایک ستارہ جو جہی اور فرقدین
 کے مابین واقع ہے۔ اس پر قبیلہ
 مخصوص کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کا مدار

اور اصل۔ محاورہ عرب ہے کہ هُوَ
 قُطْبُ ذَلِكَ الْأَمْرِ۔ مدار معاملہ ہے
 صَاحِبُ الْجَيْشِ قُطْبُ دَجَى الْحَرْبِ
 جنگ کا مدار۔ سردار قبیلہ و قوم۔ جیسے
 فَلَانٌ قُطْبُ بَنِي فَلَانٍ۔ سردار
 قبیلہ ہے۔ جر۔ أَقْطَابُ وَقُطُوبٌ و
 قِطْبَةٌ۔ الْقُطْبُ۔ اہل جغرافیہ
 کے نزدیک زمین کے محور کا کنارہ اور
 یہ قطب دو ہیں، ایک قطب شمالی،
 دوسرا قطب جنوبی۔ الْقُطْبُ اہل
 ہندسہ کے یہاں متحرک کرہ پر ایک
 نقطہ ثابت ہے۔
 الْقُطْبُ۔ کوئی چیز پہلے تعیین کر کے حساب
 و اندازہ پر بلا وزن لے لینا کہتے ہیں
 أَخَذَهُ قُطْبًا۔ تخمینہ پر بلا وزن
 لے لینا۔
 الْقُطْبَةُ۔ چکی کی میخ جس پر اوپر کا پاٹ
 گھومتا ہے۔ ایک گھاس کا نام۔ جر
 قُطْبُ۔ اہل جغرافیہ کے نزدیک قطب
 یا زمین کے محور کے کنارہ کو کہتے ہیں۔
 الْقِطْطِيَّ۔ ایک گھاس جس سے رسی بنائی
 جاتی ہے۔
 الْقُطْبَانُ۔ ایک گھاس۔
 الْقِطَابُ۔ مزاج، تخلیط، ملاوٹ، گریبان
 یا اس کے نیچے کا مقام اتصال۔
 الْقُطَابَةُ۔ گوشت کا ٹکڑا۔
 الْقِطِيبُ وَالْمَقْطُوبُ۔ پینے کی مخلوط
 چیز۔ الْقِطِيبُ وَالْقِطِيبَةُ۔ ادنیٰ
 اور بکری کا مخلوط دودھ۔
 الْقَاطِبُ وَالْقُطُوبُ۔ تڑش و شیر۔
 کیونکہ وہ بھی تند و خور ہوتا ہے۔ کہا جاتا
 ہے جَاءُوا قَاطِبَةً وَبِقِطِيبَتِهِمْ
 تمام قوم آگئی۔ قَاطِبَةُ حال ہونے
 کی وجہ سے منصب ہے۔
 قَطْرَ قَطْرًا (ن) سخت پچھاڑنا۔ قَطْرَ



الْبَعِيرُ۔ اونٹ کو تارکول ملنا۔
 الثَّوْبُ۔ کپڑا سینا۔ محاورہ ہے لَا
 أَذْرِى مَنْ قَطَرَهُ أَوْ مَنْ قَطَرَ
 بہ۔ میں نہیں جانتا کہ اس کو کون
 لے گیا ہے۔ یہ نفی کے ساتھ خاص
 ہے۔ قَطَرُ الرَّجُلِ۔ دانے وغیرہ
 کے پورے یا گھٹ کر تولنا اور پھر باقی
 کو بلا وزن کیے اسی تخمینہ پر لینا۔
 قَطُورًا فِي الْأَرْضِ۔ زمین پر چلنا۔
 قَطَرًا وَقُطُورًا وَقَطْرَانًا۔ الماءُ
 پانی کا جاری ہونا۔ بہنا۔ قطرہ قطرہ
 جاری ہونا۔ الصَّمْعُ مِنَ الشَّجَرَةِ
 درخت سے گوند نکالنا۔
 قَطَرُ قَطْرَانٍ، وَقَطَرُ وَأَقْطَرُ۔
 الاہل۔ اونٹوں کو ایک ترتیب میں
 کرنے کے لیے قریب قریب کھڑے
 کرنا۔ بولا جاتا ہے۔ قَطَرُ الْبَعِيرِ
 إِلَى الْبَعِيرِ۔ اونٹوں کو ایک نظم میں
 کر دیا۔ قَطَرُ الْمَاءِ وَأَقْطَرُ۔ قطرہ
 قطرہ پانی جاری کیا۔ قَطَرُ الدَّوَاءِ
 دوا کا قرع انبیق کے ذریعہ عرق
 نکالنا۔ قَطَرُ الثَّوْبِ۔ کپڑے کو
 عود کی دھونی دینا۔ أَقْطَرُ النَّبْتِ
 نباتات خشک ہونے لگنا۔ الشَّيْءُ
 کسی چیز کا ٹپکنے کے نزدیک ہونا۔
 محاورہ ہے۔ طَعْنَهُ فَأَقْطَرَهُ
 اس کو نیزہ مار کر ایک پہلو پر گرادیا
 أَقْطَرُ الْمَاءِ۔ پانی کا بہنا۔
 تَقَطَّرَ۔ عود کی دھونی دیا جانا۔ الماءُ
 پانی کا قطرہ قطرہ ٹپکنا۔ الرَّجُلُ
 آدمی کا اپنے آپ کو اوپر سے گرادینا
 گر پڑنا۔ عَنْ كَذَا۔ پیچھے رہ جانا۔
 بہ۔ پہلو پر گرادینا۔
 تَقَطَّرَ الْقَوْمُ۔ قوم کا ایک دوسرے
 کے پیچھے مسلسل آنا۔ الماءُ قطرہ

قطرہ گرنا اور بہنا۔ وَتَقَطَّرَا۔
 دو چیزوں کے کنارے بالمقابل ہونا۔
 اقْطَرُوا قَطْرًا۔ خشک ہونے لگنا۔
 المناقاة۔ اونٹنی کا دم کھڑی کرنا اور
 سر کو بلند کرنا۔ اقْطَارُ التَّوَجُّلِ
 غضبناک ہونا۔
 اسْتَقْطَرُ الْمَاءَ دَغِيرَةً۔ پانی کو ٹپکانا۔
 عرق نکالنا۔
 القَطْرُ۔ بارش، ٹپکنے یا بہنے والی چیز کا
 قطرہ۔ ج۔ قَطَرُ۔
 القَطْرُ۔ ایک قسم کا تانبہ یا گھلا ہوا تانبہ۔
 ایک قسم کی چادر۔
 القَطْرُ۔ ولایت و ملک۔ جانب۔ طرف
 ج۔ اقْطَارُ۔ اقْطَارُ الدُّنْيَا۔
 دنیا کے چاروں گوشے۔ قَطْرُ
 الدُّنْيَا۔ (علم ہند میں) خط
 مستقیم جو کہ دائرہ کو تقسیم کر دے
 اور محیط کو مرکز سے گزرتے ہوئے
 برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر
 دے۔ قَطْرُ الْمَرْجِ وَالْمُسْتَقْبَلِ
 وَالْمُعِينِ۔ وہ خط جو دو متقابل
 زاویوں کو باہم ملائے۔
 القَطْرُ وَالْقُطْرُ۔ وہ اگر کی لکڑی جو
 دھونی دینے کے کام آتی ہے۔
 القَطْرُ کسی چیز کی کچھ مقدار وزن کر کے
 لینا اور پھر باقی مقدار کو بلا وزن
 اسی تخمینہ کے حساب سے لے لینا۔
 القَطْرَةُ۔ اسم مرۃ۔ نقطہ۔ ج
 قَطْرَاتٌ۔ رَمَاةُ اللَّهِ بِقَطْرَةٍ۔
 خلا اس پر کوئی بلاناازل کرے۔
 القَطْرَةُ وَالْقَطِيرَةُ۔ کم قیمت اور
 گھٹیا چیز۔
 القَطْرَانُ وَالْقَطْرَانُ۔
 ایک روغنی سیال مادہ جو صنوبر سے
 درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔

تارکول۔
 القَطَارُ وَالْقُطُوسُ وَالْمِقْطَارُ۔
 بہت برسنے والا بادل۔ القَطَارُ۔ وہ
 زہر جو بوجہ کثرت کے ٹپکتا ہو۔
 القَطَارَةُ۔ کسی چیز کا ٹپکا ہوا حصہ۔
 تھوڑا پانی۔
 القَطَارُ۔ صِنِّ الْإِبِلِ۔ اونٹوں کی قطار
 یا لائن۔ ج۔ قُطْرٌ وَقُطْرَاتٌ۔
 ریل گاڑی۔
 القَطَارَةُ۔ اونٹوں کو ایک قطار میں
 ترتیب و نظم کے ساتھ باندھنا۔
 محاورہ ہے کہ مَدَّتْ بِه قَطَارَةً
 چمچال۔ اس کے پاس اونٹوں کی
 قطار گزری۔
 القَطَارِيُّ وَالْقَطَارِيَّةُ۔ سانپ۔
 القَطَارُ۔ ہر ٹپکنے والا گوند۔
 دم الاخوين (ددا)
 القَاطِرَةُ۔ قَاطِرُ کی ٹونٹ۔ ریلوے
 انجن۔
 المِقْطَرُ وَالْمِقْطَرَةُ۔ وہ انگلیٹھی جس
 کو عود وغیرہ کی دھونی کے لیے کام میں
 لاتے ہیں۔ ج۔ مِقْطَرُ۔ المِقْطَرَةُ۔
 وہ لکڑی جس میں متعدد سوراخ ہوتے
 ہیں اور ان میں محرموں کے پیر پھنسائے
 جاتے ہیں۔ کاٹھ۔
 المِقْطَرَةُ۔ کوئی چیز پہلے تھوڑی مقدار
 میں وزن یا پیمانہ کے ذریعہ لینا اور
 پھر باقی کو اسی اندازہ و حساب پر
 بلا وزن لینا۔ بولا جاتا ہے اِكْتَرَا
 مِقْطَرَةً۔ اس کے آمد و رفت پر
 کرایہ کیا۔
 المِقْطُوسُ۔ مفعول۔ جس پر تارکول ملا
 گیا ہو۔ اَرْضٌ مَقْطُورَةٌ۔ وہ زمین
 جس پر بارش ہوئی ہو۔
 قَطْرَبَ۔ جلدی کرنا۔ قَطْرَبَكَ۔ کسی کو

بچھاڑنا۔

الْقَطْرُ بِسُرْكُو بَلَانَا۔

الْقَطْرُ بِسُرْكُو۔ پور۔ وہ بھیڑ یا جس کے بال گر چکے ہوں۔ مذکر جھوٹ۔ جھوٹے جنات۔ ایک کیڑا جو حرکت کرتا رہتا ہے۔ رات کو چمکنے والا کیڑا۔ جاہل۔ کمیہ۔ بچھاڑا ہوا۔ نامرد، جھوٹا لٹا۔ دماغی امراض میں۔ بے جنون کی قسم کا ایک مرض۔ ایک پودا جس کے کانٹے گزرنے والے کو لپیٹ جاتے ہیں۔

قَطْرَتِ الْبَعِيرِ۔ اونٹ کو قنطران ملنا۔

قَطَعَ قُطْعًا وَمَقْطَعًا وَتَقَطَّاعًا رَفً، الشَّيْءُ كَاطْنًا۔ علیہ وجہ کرنا۔

قَطَعَهُ عَنْ حَقِيقَةٍ۔ حق سے روکنا۔

قَطَعَ الصَّلَوةَ۔ نماز کو باطل کرنا۔

فِي الْقَوْلِ۔ یقین کرنا۔ الطَّبِيقُ عَلَى السَّائِلِينَ۔ راستہ کو چھیننے والوں سے

روکنا اور خوف دلانا۔

قَطَعَ قُطْعًا وَتُقْطَعُ رَفً، التَّهْوِ۔ نہر

کو پار کرنا۔ قَطَعَهُ بِالْقَطِيعِ أَوْ

السَّوِطِ۔ چھڑی یا کوڑے سے مارنا۔

قَطَعَهُ بِالْحُجْبَةِ۔ دیل سے خاموش

کرنا۔ لِسَانَهُ۔ احسان کے ذریعہ

خاموش کرنا۔

قَطَعَ قُطْعًا وَقَطِيعَةً رَفً، رَحِمَهُ۔

رشتہ داری توڑنا۔ تعلق رشتہ ختم کرنا۔

قُطْعَةُ الصَّدِيقِ۔ دوست کو

چھوڑنا۔

قَطَعَ قُطْعًا رَفً، الْحَوْصَ۔ حوض آدھا

بھر کر چھوڑ دینا۔ فَلَانُ الْحَبْلِ أَوْ

بِحَبْلٍ۔ رسی سے اپنا گلہ گھونٹنا۔

عَنْقُ دَابَّتِهِ۔ چوپایہ کو فروخت کرنا۔

لَهُ قُطْعَةٌ مِّنَ الْمَالِ۔ کسی کو

دینے کے لیے مال کا ایک حصہ علیحدہ

کرنا۔ قَطِيعَةً السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ

آقا کا اپنے غلام پر ٹیکس عائد کرنا۔

مخاورہ ہے قَطَعْنِي الثَّوْبُ۔ میرے

قد کے لیے کافی کپڑا ہے۔

قَطَعَ قُطْعًا وَقُطْعًا وَقُطْعًا عَارِفً،

مَاءُ الْبَيْتِ۔ کنویں کا پانی کم یا ختم ہو

جانا۔ تَقَطَّعَتِ الطَّيْرُ۔ پرندوں کا

سرد ملک سے گرم ملک کی طرف کوچ

کرنا۔ پرندوں کی صفت قَوَّاطِعُ ہے

قُطْعٌ قُطَاعَةٌ۔ کلام پر قفا در نہ ہونا

۔ لِسَانُهُ زَبَانُ كِي رَوَانِي اور تیزی کا

زبائل ہو جانا۔

قَطِيعَتُ قُطْعًا وَقُطْعًا وَقُطْعَةً وَ

قُطَاعًا دَسً، يَدَا بِلَا تَحْتِ كَا بُو ج

مرض یا قطع جُدا ہو جانا۔

قَطِيعَ النَّفْسِ۔ سانس کا منقطع ہو جانا۔

الْوَجْلُ۔ عاجز و مایوس ہونا۔

بَلَّ۔ کسی چیز کا امیدوار امیدوار کے

درمیان حائل ہو جانا۔ اس امیدوار

کو مَقْطُوعٌ بہ کہتے ہیں۔

قَطَعَ۔ الشَّيْءُ۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الشَّعْرَ۔ شعر کی تقطیع (تخلیل عروسی،

کرنا۔ الخَمْرُ بِالْمَاءِ۔ شراب کو

پانی میں ملانا۔ الْفَرْسُ الْخَيْلُ۔

گھوڑے کا گھوڑوں کی جماعت سے

سبقت لے جانا۔ اَللّٰهُ عَلَيَّ الْعَذَابُ

قسم قسم کا عذاب دینا اور ٹکڑے کرنا۔

الْفَرْسُ الْجُرْمُ۔ گھوڑے کا

خوشی میں متعدد قسم کی چال چلنا۔

قَطَعْنِي الثَّوْبُ۔ کپڑا میرے قد

کے لیے کافی ہے۔ هَذَا الثَّوْبُ

يَقْطَعُكَ قَبِيضًا۔ یہ کپڑا تمہاری

قمیص کو کافی ہے۔ قَطَعَ فِي بَطْنِهِ۔

کسی کے پیٹ میں مروڑ بیچش ہونا۔

قَاتَعَهُ مُقَاتَعَةً۔ کسی کی ملاقات یا

مراسلت منقطع کرنا۔ بَانِيَا كُتْ کرنا۔

قَاتَعَ الْأَجِيرَ عَلَى كَذَا أَوْ كَذَا مِّنَ

الْأَجْرِ أَوْ لَعْمَلٍ۔ اجرت معینہ پر

کام سونپنا۔ هَلِكُهُ دِينَا۔ فَلَانُ

فُلَانًا يَسْتَيْفِيهِمَا۔ دو آدمیوں کا اپنی

اپنی تلوار کو مقابل کرنا کہ کس کی تلوار

زیادہ تیز ہے۔ قَاتَعُوا الْحَوْمَهُمْ

بِالسَّيْفِ۔ ایک دوسرے کا گوشت

تلوار سے کاٹنا۔

أَقْطَعَ الرَّجُلُ۔ کسی آدمی کا جواب ہو کر

خاموش ہو جانا۔ عَنْ أَهْلِهِ۔ اہل و

عیال سے جُدا اور منقطع ہونا۔ مَاءُ

الْبَيْتِ۔ پانی کا ختم ہونا۔ فَلَانًا۔

نہرے کسی کو پار اتارنا۔ أَقْطَعُهُ

الْحَقْبُ۔ ایندھن کا ٹٹے کی اجازت

دینا۔ أَقْطَعُهُ بِالْحُجْبَةِ۔ دیل سے

لا جواب وچ کرنا۔ الْأَمِيرُ

الْجُنْدُ الْبَلَدُ۔ لشکر کو کوئی شہر

جاگیر میں دے دینا۔ أَقْطَعَكَ

الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا تجھ سے منقطع ہونا

أَقْطَعَتِ السَّمَاءُ بِمَوْضِعٍ نَّأٍ۔

کسی جگہ بارش نہ ہونا۔ أَقْطَعَ

الْقَوْمُ۔ کسی قوم پر بارش کا کرنا۔

الدُّجَا جَا جَةً۔ مرغی کا انڈے دینے

سے باز رہنا۔ كُتْ کرنا۔ أَقْطَعْنِي

الثَّوْبُ۔ کپڑا میرے قد کے لیے

کافی ہے۔

تَقَطَّعَ۔ کٹ جانا۔ تَقَطَّعَ الظِّلُّ۔ سایہ

کا گھٹنا اور سکڑنا۔ تَقَطَّعُوا

أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اپنے درمیان

معاملہ کو تقسیم کرنا۔ تَقَطَّعْتُ عَلَى

هَذَا الْكِبَادِ أَعْنَاقُ الْخَيْلِ

گھوڑوں کی گردنیں اس گھوڑے سے

متصل نہ ہو سکیں۔

انْقَطَعَ الشَّيْءُ۔ منقطع ہونا۔ کٹ جانا۔

وَقْتُ خَرَمٍ ہونا۔ جیسے انْقَطَعَ الْحَرَمُ

ق

أَوِ الْبُؤْدُ - گرمی یا سردی کا زمانہ گزر گیا - السَّيْفُ - تلوار کی دھار گرنا - مَاءُ الْبَيْتْرِ - کنوئیں کا پانی ختم ہو جانا - الْعَيْثُ - بارش کا رگنا - الْكَلَامُ - کلام کا جاری نہ رہنا - رُكْ جَانَا - رَأَقَطَعَ الْكُفْرُ - نمر کا بند یا خشک ہونا - اللَّبَنُ - دودھ کی تری خشک ہو کر گانٹھ بندھ جانا - لَسَا فُلُهُ - زبان کی طلاق و روانی کا زائل ہونا - إِلَى فُلَانٍ - کسی کے پاس خصوصی صحبت رکھنا -

أَلْقَطَعَ - بِالسَّافِرِ - مسافر کی سواری کا ہلاک ہو جانا یا زاد راہ ختم ہو جانا - اور سفر منقطع ہو جانا - ایسے مسافر کو مُنْقَطِعٌ بہ کہا جاتا ہے - تَقَطَّعَا - ایک دوسرے سے تعلقات ختم کرنا - تَقَطَّعَ الشَّيْءُ - کسی چیز کا ایک حصہ دوسرے سے منقطع ہونا - اِقْطَعَ مَالٌ فُلَانٍ - کسی کا مال اپنے لیے لینا - مِنْ الْمَالِ قِطْعَةً - مال سے کچھ حصہ لینا - مَا فِي الْإِنَاءِ - برتن کی چیز کو پی جانا - اِسْتَقَطَعَهُ بَكَدَّ او تَوْبًا - کسی سے جاگیر طلب کرنا یا کپڑا کٹوانا -

اِقْطَوْطَعْتَ الظِّلُّ - پندوں کا سرد ملک سے گرم ملک کو چلے جانا - اَلْقَطْعُ مصدر قَطَعَ - بمعنی یقیناً - جیسے اَلْأَمْرُ وَاقِعٌ قِطْعًا - یعنی بلا شک واقع ہے - اِنْبَنَى اَقْطَعُ بِذَلِكَ قِطْعًا - میں اس کا یقین رکھتا ہوں - اَلْقِطْعُ - ج - اَقْطَاعٌ وَاَقْطَعٌ و قِطَاعٌ - درخت کا کٹا ہوا حصہ - نیزہ کا چھوٹا اور چوڑا پھل - ج - قُطُوعٌ وَاَقْطَاعٌ - خوگر اور موٹی چادر جو سوار کے نیچے بچائی جاتی ہے - ایک نقش و

نگار والا کپڑا - رات کا ایک حصہ - ثَوْبٌ قِطْعٌ وَاَقْطَاعٌ - کاٹا ہوا کپڑا - اَلْقِطْعُ - پیٹ کا درد اور مروڑ - سانس کا انقطاع - وَالْقِطْعَةُ - گرمی اور حدت سے کنوئیں کا پانی ختم ہو جانا - اَلْقِطْعُ - فِي الْفَوَسِ گھوڑے کی کچھڑوں کا کٹ جانا - اَلْقِطْعُ وَالْقِطْعَةُ - رشتہ داری قطع کرنے والا -

اَلْقِطْعُ - جس کی آواز منقطع ہو جائے - اَلْقِطْعَةُ - کسی چیز کا ایک حصہ - ج - قِطْعٌ - اَلْقِطْعَةُ - مِنَ الشَّجَرِ سات یا دس یا اس سے کم اشعار - اَلْقِطْعَةُ - زمین کا جدا کردہ ٹکڑا - پلاٹ - کسی چیز کا کاٹا ہوا ٹکڑا - مبدہ - مبدہ کی بھوسی - کتاب کی ایک فصل - ج - قِطْعٌ و قِطْعَاتٌ - اَلْقِطْعَةُ وَالْقِطْعَةُ - کاٹنے کی جگہ - ہاتھ کٹے آدمی کا باقی ماندہ ہاتھ کا حصہ - ج - قِطْعٌ و قِطْعَاتٌ - قِطْعَاتُ الشَّجَرِ و قِطْعَاتُ نَهْرٍ و قِطْعَاتُهَا - درخت کی کانٹھوں کے کنارے جو کاٹنے کے بعد چھوٹتے ہیں - اَلْقِطَاعُ - کاٹنے کا آلہ - ج - قِطْعَةُ - اَلْقِطَاعُ وَالْقِطِيعُ - رات کے ابتدائی تہائی حصہ کا مجموعہ - اَلْقِطَاعُ و اَلْقِطْعُ - درہم - اَلْقِطَاعَةُ - کاٹنے سے جو تراشہ گرے - کسی چیز کا کاٹا ہوا حصہ - وہ لقمہ جس کا آدھا حصہ کھالیا جائے اور آدھا واپس اگل دیا جائے - اَلْقِطَاعَةُ - (عام نصاریٰ کی اصطلاح میں) چند مقررہ ایام میں بعض خاص اغذیہ اور گوشت سے پرہیز کرنا -

اَلْقِطِيعُ - ج - قِطْعَانٌ و قِطَاعٌ وَاَقْطَاعٌ - ججہ آقا یا طبع - چوپایوں یا بکریوں کا گلہ - رِبُوطٌ قِطِيعٌ - ج - قِطْعَانٌ و قِطَاعٌ وَاَقْطَاعٌ وَاَقْطَعٌ و آقَا طِعٌ و قِطْعٌ و قِطْعَاتٌ - وہ شاخ جس کو تراش کر تیر بنایا جائے - درخت یا شاخ کا کٹا ہوا حصہ - ج - قِطْعَاءٌ وَاَقْطِعَاءٌ - نظیر - مثال - جیسے هُوَ قِطِيعَةٌ - وہ جسم اور قد میں اس کا مشابہ ہے - هُوَ قِطِيعٌ اَلْيَقِيَامِ - وہ بوجہ موٹاپے یا بڑھاپے کے اچھے نہیں سکتا - اِمْرَأَةٌ قِطِيعٌ اَلْكَلَامِ - وہ عورت جو چرب زبان نہ ہو - رَجُلٌ قِطِيعٌ - وہ شخص جو سانس پھولنے کی وجہ سے بول نہ سکے - مَوْنَتٌ قِطِيعٌ - اِمْرَأَةٌ قِطِيعٌ و قُطُوعٌ - وہ عورت جو اٹھنے میں سستی و تاخیر کرے - اَتَقَوَّ اَلْقِطِيعَاءَ - ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنے سے بچو -

اَلْقِطِيعَةُ - مُدَائِي - وظیفہ خراجی - زمین کا ٹیکس - جاگیر - ج - قِطَاعِيٌّ - اَلْاَقْطَاعَةُ - خراجی - زمین کا وہ حصہ جو لشکر کو ان کی معاش کے طور پر دیا جائے - جاگیر - ج - اِقْطَاعَاتٌ - اَلْقِطِيعُ - پیٹ میں مروڑ - تَقْطِيعٌ اَلرَّجُلِ - آدمی کا قد و قامت - ج - تَقَاطِيعٌ -

اَلْاَقْطُوعَةُ - وہ چیز جو بطور علامت قطع تعلق ایک لڑکی دوسری کو بھیجے - اَلْقَاطِيعُ - روکنے والا - کاٹنے کا آلہ - کپڑے یا کسی چیز کے بنانے کے لیے نمونہ - محاورہ ہے کہ قِطْعُ اَلْاَدِيمِ عَلٰی اَلْقَاطِيعِ - چڑا نمونہ پر کاٹا گیا ہے - كَبِنٌ قَاطِعٌ - کھٹا دودھ - بُرْهَانٌ

قَاطِعٌ. حجت ختم کرنے والی دلیل۔
سَيْفٌ قَاطِعٌ. تیز تلوار۔ قَاطِعٌ
النَّظَرِيقِ۔ چور ڈاکو۔ ج۔ قُطْعٌ
قُطَاعٌ۔
القَاطِعَةُ۔ قاطع کی ٹوٹ۔ ج۔
قَوَاطِعُ۔ طیارے قَوَاطِعُ۔ وہ
پرندے جو جاڑے اور گرمی میں
ایک جگہ نہ ٹھہریں۔ اس کے مقابلے
میں طیارے آدابید ہے۔
القَطَاعُ۔ اسم بالغہ ہے۔ مہماروں کی
اصطلاح میں وہ شخص جو عمارت
کے پتھر تراشے۔ القُطُوعُ۔ بہت
کٹنے والا۔ مِنَ النُّوقِ۔ وذاقہ
جس کا دودھ جلدی منقطع ہو جائے۔
الْأَقْطَعُ۔ جس کا ماتھ کٹ گیا ہو۔ ہرا۔
مُونْت قُطْعَاءُ۔ ج۔ قُطْعٌ وَقُطْعَانٌ
رَجَحٌ قُطْعَاءُ۔ وہ رشتہ داری جس
کو قطع کر دیا گیا ہو۔
الْمُقْطَعُ۔ کاٹنے یا کٹنے کا مقام۔ ج۔
مَقَاطِعُ۔ شَرَابٌ لَذِيذٌ الْمَقْطَعِ۔
وہ مشروب جس کا آخری حصہ لذیذ ہو
مَقَاطِعُ الْأَنْهَارِ۔ نہروں کے وہ
مقامات جو عبور ہو سکیں۔ مَقَاطِعُ
الْكَلَامِ۔ وہ وقفہ جہاں کلام رُک
جاتا ہے۔ کلام میں ٹھہرنے اور وقفہ
کرنے کے مواقع۔ مَقْطَعُ الْحَقِّ
جس سے باطل کو قطع کر دیا جائے۔
مَقْطَعٌ۔ حرکت کرنے والا حرف۔
دو حرف جن کا دوسرا حرف ساکن ہو
مَقْطَعُ الْحُرُوفِ۔ حرف کا مخزج۔
الْمُقْطَعُ۔ وہ شخص جس کی حجت منقطع ہو
چکی ہو۔
الْمُقْطَعُ۔ (جنی)۔ وہ شخص جس کا نام عطایا
کے حبشہ میں نہ ہو۔ یا وہ شخص جس
کے برابر والوں کو تو حصہ دیا جائے مگر

اس کو چھوڑ دیا جائے۔ مُقْطَعُ النَّهْرِ
نہر کا وہ مقام جہاں سے پار ہو سکیں۔
الْمُقْطَعُ۔ آئینہ قطع۔ چھڑا یا کپڑا قطع
کرنے کے لیے نمونہ۔ سَيْفٌ وَمُقْطَعٌ
تیز تلوار۔
الْمُقْطَاعُ۔ بھائی چارے پر قائم نہ رہنے
والا۔ يَتَوَقَّعُ الْمُقْطَاعُ۔ وہ کنواں جس
کا پانی جلد ختم ہو جائے۔ مَقْطَاعُ
الْكَلَامِ۔ لوگوں کے کلام کو قطع کرنے
کا عادی۔
الْمُقْطَعَةُ۔ کاٹنے کی جگہ یا سبب۔
مجاورہ ہے الْمَجْرُوفُ الْمُقْطَعَةُ
لِلنَّوْدِ۔ جدائی قطع محبت کا سبب
ہے۔
الْمُقْطَعَةُ وَالْمُقْطَعَاتُ۔ چھوٹے
کپڑے۔ یہ اسم جنس ہے اور اس کا
واحد نہیں ہے۔ یہ چھوٹے کپڑوں
کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے۔
مُقْطَعَاتُ الشَّيْءِ۔ وہ طریقہ جن
کی طرف شے کی تجللیں یا جن سے شے
کی ترکیب ہو۔ الْمُقْطَعَاتُ مِنَ
الشَّعْرِ۔ چھوٹے اشعار یا ترانے۔
الْمُنْقَطِعُ۔ مِنَ الْوَادِي دَنْجُوبُ۔
وادی کا وہ کنارہ جہاں وادی ختم ہو۔
الْمُنْقَطِعُ۔ فاعل۔ مُنْقَطِعُ الْقُرُونِ
جس کا کوئی ہمسرہ نہ ہو۔ بے نظیر۔
مُنْقَطِعُ الْعُقَالِ فِي الشَّيْءِ۔ شر
میں بے لگام۔
الْمُنْقَطِعُ۔ فاعل۔ کوتاہ قد۔ غُرَّةٌ
مُنْقَطِعَةٌ۔ گھوڑے کے منہ کی
وہ سفیدی جو نتھنوں سے آنکھ
تک ہو۔
قُطْفَةُ قُطْفَارِضٍ وَقُطْفَةُ جَمِيلِنَا
خراش پیدا کرنا۔ قُطْفٌ وَقُطْفٌ
وَأَقْطَطُفُ۔ الثمر۔ پھل چٹنا۔

الشيء۔ کسی چیز کو اچک لینا۔ چھین
بھاگنا۔ قُطْفٌ مَعْسَلَكُنْہ۔ شہد کے
چھیننے سے سارا شہد نکال لینا۔
أَقْطَطَفُ الْكَلَامَ۔ کلام کا خلاصہ کرنا۔
قُطِفَ قُطَافًا وَقُطُوفًا (نض)۔
الْفَرْسُ وَغَيْرُهُ۔ گھوڑے کی چال
سُت اور کم ہونا۔
أَقْطَطَفَ الْكَلَامَ۔ انور کا چٹنے کے قابل
ہو جانا۔ الرَّجُلُ سُت سوار
والا ہونا۔
الْقُطْفُ۔ خراش۔ ج۔ قُطُوفٌ۔
الْقُطْفُ۔ اثر۔ ج۔ قُطُوفٌ۔ ایک
قسم کا پہاڑی درخت جس کی کڑوی مضبوط
ہوتی ہے۔ بھوے کا ساگ۔ واحد
قُطْفَةٌ۔
الْقُطْفُ۔ چٹنے ہوئے پھل۔ انور کا گچھا
جب وہ چٹنا جائے۔ ج۔ قُطَافٌ
وَقُطُوفٌ۔
الْقُطْفَةُ۔ ایک کانٹے والا ساگ جس کا
اندرونی حصہ سُرخ اور پتے ٹیالے
رنگ کے ہوتے ہیں۔
الْقُطَافُ وَالْقُطَافُ۔ پھلوں کے چٹنے
جانے کا وقت۔ خراش۔
الْقُطَافَةُ۔ انور چٹنے کے وقت جو
نیچے گر جائیں۔
الْقُطُوفُ۔ مِنَ الدَّوَابِّ۔ بُری اور
سُت رفتار والا جانور۔ ج۔ قُطْفٌ۔
الْقُطِيفُ۔ چٹنا ہوا پھل۔
الْقُطِيفَةُ۔ مخملی چادر جو اوڑھی جاتی ہے
ج۔ قُطْفٌ وَقُطَائِفُ۔ الْقُطَائِفُ
ایک کھانا جو آٹے میں پانی ملا کر بنایا
جاتا ہے۔ ایک بوٹی ہے، جس کو
سالف العروس بھی کہتے ہیں۔
الْمُقْطِفُ۔ جس میں پھل چٹ کر رکھے جائیں
ج۔ مَقَاطِفُ۔



الْمَقْطُطُ. وہ درختی یا چاقو جس سے پھل چٹا جائے۔ گچے کی ڈنڈی۔ جہ مَقَاطُطٌ۔

الْمَقْطُطَةُ. کوتاہ قد آدمی۔

قَطَطَتْ قَطَطَةً. السَّحَابُ. ابر کا اوے یا پھوار برسنا۔ قَطَطَ طَتِ الْحَبْلُ. چکڑ کا بولنا۔

تَقَطُّطَ الرَّجُلُ فِي الْأَمْرِ. کسی معاملہ میں آدمی کا سر پر سوار ہونا۔ فِي الْبِلَادِ. شہروں میں جانا۔ اَللَّكُوْ اِلَى الْبَيْتِ. ڈول کا کنویں میں گرنا۔ الرَّجُلُ. قدم قریب قریب رکھ کر تیز رفتاری چلنا۔

الْقَطِطُطُ. اولاد۔ پھوار۔

الْقَطَطَا. تیز رفتاری۔ جَاءَتْ الْخَيْلُ قَطَايَ. گھوڑے گلہ در گلہ آئے۔

قَطَلْ قَطْلًا. قَطَلْ الشَّيْءَ. کاٹنا۔ قَطَلْ عُنُقَهُ. گردن پر مارنا۔

قَطَنَهُ. پکچھا پکچھا یا پلو پر کرنا۔

تَقَطَّلَ. اِلْجُدَّ. جڑ سے کٹ جانا۔

الْقَطْلُ وَالْقَطِيبُ. مِنَ الشَّجَرِ وَنَحْوِهِ. درخت وغیرہ کاٹا ہوا۔

بَوْلَا جَاتَا. نَحَلَهُ قَطِيبٌ وَ جَذَعٌ قَطْلٌ وَقَطِيبٌ. جڑ سے کاٹا ہوا۔

الْقَطِيبَةُ. کبک کا وہ ٹکڑا جو پانی وغیرہ خشک کرنے کے کام آتا ہے۔

الْمَقْطَلُ. مفعول۔ بختہ۔

الْمَقْطَلَةُ. کھٹنے کا آلہ۔ جہ مَقَاطِلُ الْقَطْلَبِ. ایک درخت ہے جس میں انگور کی طرح سبز دانے اُگتے ہیں جو کہ پک کر سرخ ہو جاتے ہیں، ان کا ذائقہ میٹھا اور کھٹا ہوتا ہے۔ واحد قَطْلَبَةٌ۔

قَطَمَهُ قَطْمًا. راضی، چبانا۔ چکھنا۔

قَطَمَ الْعُودَ. لکڑی کو دانت سے چبانا۔ الشَّيْءُ. کاٹنا۔ اللَّحْمَ

وغيره کا۔ گوشت وغیرہ کی خواہش کرنا۔ الصَّفْرُ إِلَى اللَّحْمِ. شکرہ

کا گوشت کے لیے مشتاق ہونا۔

قَطِمَ قَطْمًا. گوشت وغیرہ کی خواہش کرنا۔ صفت قَطِمٌ ہے۔

قَطَمَ الشَّارِبَ. پینے والے کا مشروب کو چکھ کر برا منہ بنانا۔

الْقَطَامُ. شکرہ۔ وہ شکرہ جو گوشت کا بہت مشتاق ہو۔

الْقَطَائِيُّ وَالْقَطَائِيَّةُ. تیز نظر شکرہ جو فنکار کے لیے سراٹھائے رکھتا ہو۔

الْقَطَائِيُّ وَالْقَطَائِيَّةُ. تیز نبیذ۔

رَجُلٌ قَطَائِيٌّ. معاملات میں مند کرنے والا۔

الْقَطَامَةُ. وہ چیز جو منہ میں جبا رکھیں دے دی جائے۔

الْقَطِمُ. غضبناک۔

الْقَطِيمَةُ. ذائقہ بدلا ہوا دودھ۔ ٹکڑا کھانے کی ایک لپ بھر مقدار۔ شئیٌ مَزَالٌ مَقْطُومٌ کھٹ مٹھے ذائقہ والی چیز۔

الْمَقْطُومُ. بچہ۔ جہ مَقَاطِمُ الْمَقْطُومِ. مصر میں ایک پہاڑ کا نام ہے جو قاہرہ کے نزدیک واقع ہے۔

الْقَطِيبُ وَالْقَطْبَارُ. وہ باریک پردہ یا بھٹی جو چھوڑا رے کے گودے اور گھٹی کے درمیان ہوتی ہے۔ محاورہ ہے کہ مَا أَصْبَتْ مِنْهُ قَطِيبًا۔ مجھے اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔

قَطِنَ قُطُونًا. (فی المكانِ وَبِهِ۔ کبھی جگہ پر مہمان اور وطن بنانا۔ الرَّجُلُ. خدمت کرنا۔

قَطِنَ قُطُونًا. (س) طہور کا کمر جک جانا۔

صفت أَقْطُنٌ۔

قَطْنُهُ بِالْمَكَانِ. کسی کو مقیم کرنا۔ قَطَنَ الْكُرْمُ. انگور کی بیل گرہیں پھوٹنا۔

الْقَطْنُ. جلے اقامت۔ پرندہ کی دم کی جڑ۔ ریڑھ کی آخری ہڈی کے اوپر والی جگہ۔ انسان کی کمر کے نیچے والا

پست اور ہموار حصہ۔ جہ أَقْطَانُ۔

الْقُطْنُ وَالْقُطْنُ. کیاس۔ روئی۔ اس کے ایک ٹکڑے کو قُطْنَةٌ کہتے ہیں۔ یہ اسم جنس ہے۔ کبھی جمع أَقْطَانُ بناتے ہیں۔

الْقُطْنَةُ وَالْقُطْنَةُ. ادھیری کا پرٹا۔ حصہ۔ ست پڑا۔ الْقُطْنَةُ. دونوں

کولہوں کے درمیان والا گوشت۔

الْقُطَانُ. ہودج کی لکڑی۔ جہ قُطْنٌ۔

الْقُطَانَةُ. بانڈی۔

الْقُطْنِيَّةُ وَالْقُطْنِيَّةُ. وہ دانے جن کا سالن پکا یا جائے جیسے مسور، چنا

باقلا۔ جہ قُطَانِيٌّ. سوتلی کپڑے۔

الْقَاطِنُ (فاعل) جہ قُطَانٌ وَقَاطِنَةٌ وَقُطَيْنٌ۔

الْقَاطِنُ. قاطن کے مترادف اور جمع بھی ہے۔ اہل خانہ۔ خدام و ماتحت لوگ

و واحد جمع دونوں کے لیے نیز۔ جہ قُطْنٌ ہے قُطَيْنٌ فُلَانٌ۔ فلاں کے خدام و حاشیہ نشین۔ قُطَيْنُ اللَّهِ

ساکین حرم خدائی۔

الْقُطَيْنَةُ. اہل خانہ۔ اہل خاندان۔

الْقُطَانُ. کیاس کا کاروبار کرنے والا۔

قَاطِنَاتُ مَكَّةَ وَقُطْنُهَا۔ مکہ کے کبوتر۔

الْقُطَانُ. ریشم وغیرہ سے جو رسی کی طرح بٹا ہوا ہو۔

الْمَقْطُطَةُ. وہ زمین جس میں کیاس بویا



جائے۔

الْيَقْطِطِينَ. وہ بیل جس کا تنہ نہ ہو جیسے
گکڑی وغیرہ کی بیل۔ مگر زیادہ تر گھیا،
لو کی کوکتے ہیں واحد يَقْطِطِيْنَةُ

ہے۔

قَطَا يَقْطُوْا قَطُوًّا۔ بھاری چال چلنا۔

الْقَطَا۔ قطا کا بولنا۔ اَلْمَا شَيْءٌ

چھوٹے قدموں سے چلنا یا اٹھلا کر

چلنا۔

تَقَطَّى۔ دیر کرنا۔ الْفَرَسُ گھوڑے کے

بالکل آخری حصہ پر سوار ہونا۔

لَا صَحَابِيَه۔ اپنے دوستوں کو

دھوکا دینا۔ بَوَّجْهِه عَنْه۔

اعراض کرنا۔ منہ پھیرنا۔

لَا قُطُوْطِي۔ قریب قریب قدم رکھ کر چلنا

ناز و ادا کے ساتھ چلنا۔

الْقَطَاةُ۔ کبوتر کے برابر ایک ریگستانی

پرندہ۔ بھٹ تیر۔ ج۔ قَطَا و

قُطُوَاتٌ وَقُطِيَاتٌ۔ الْقَطَاةُ

مِنَ الدَّابَّةِ۔ سواری کے جانور کا

پٹھا۔ پچھلی سواری کے بیٹھنے کی جگہ۔

کمر کی آخری حد کے بعد والا حصہ۔

ذَهَبُوا فِي الْاَرْضِ بِقَطَا۔ وہ زمین

پر منتشر طور پر گئے۔

الْقُطُوَانُ وَالْقَطُوَانُ وَالْقَطُوْطِي

بھاری آدمی جو آہستہ آہستہ چلے۔

الْقَطُوْطِي۔ لمبی ٹانگوں والا۔

تَعَدَّ قَعَارَن، بے خوف بات کرنا۔

أَقْعَمَ۔ القوم۔ کھاری پانی کھود کر نکالنا

اور اس پر سجوم کرنا۔

الْقُعْمُ وَالْقُعَاعُ۔ مِّنَ الْمِيَاهِ نہایت

شدید کھاری پانی۔

تَعَبَ الْحَاظِرُ۔ کھڑا پیالہ کی طرح

تہہ نما ہونا۔ فَلَانٌ فِي الْكَلَامِ۔

کلام کو حق کی گہرائی سے نکالنا۔

لِقَاعِبٍ۔ چینی والا بھڑیا۔

الْقُعْبُ۔ بڑا اور موتی تہہ والا پیالہ۔ ج

أَقْعَبُ وَقِعَابٌ وَقِعْبَةٌ۔

قُعْبُ الْكَلَامِ۔ کلام کی گہرائی۔

الْقُعْبَةُ۔ پہاڑ کا غار۔

الْقُعْبِيُّ۔ بڑی تعداد۔ عدد کثیر۔

الْقُعْبِلُ وَالْقُعْبِلُ۔ ایک قسم کی کھنی۔

سانپ کی چھتری۔ الْقُعْبِلُ۔ دودھ

دوہنے کا بڑا پیالہ۔ اکھڑ مزاج۔ نیز

مزاج آدمی۔

قَعَتَ قُعُتًا وَقُعْتُهُ دَن لَّهُ مِّنَ

الشَّيْءِ۔ کسی چیز کا دونوں ہاتھ بھر کا

دینا۔

قَعَتَ وَقَعَتَ الشَّيْءِ۔ کسی چیز کو جڑ

سے کھودنا۔

أَقْعَتَ۔ فِي مَالِهِ۔ فضول خرچی کرنا۔

لَهُ الْعَطِيَّةُ۔ بہت عطیہ دینا۔

إِقْتَعَتَ۔ الْحَافِرُ۔ کنویں سے بہت سی

مٹی نکالنا۔ لَنَ الْعَطِيَّةُ۔ بہت

عطیہ دینا۔

انْقَعَتَ۔ جڑ سے اکھڑنا۔ الْحَارِطُ۔

دیوار کا جڑ سے گر پڑنا۔

الْقَعِيْثُ۔ آسان و سہل۔ بارش کثیر۔

بڑا سیلاب۔

تَعَدَّ قُعُودًا وَمَقْعَدًا دَن کھڑے

ہونے کی حالت سے بیٹھنا۔ قُعُودًا

کھڑا ہونا (افراد میں سے سے) قَعَدَ

بَلہ۔ بٹھانا۔ قَعَدَ عَنِ حَاجَتِهِ۔

مؤخر ہونا۔ فَلَانٌ يَقُوْذُہ کسی کے

ہم رتبہ ہونا۔ قَعَدَ لِيْ عِنَّا شُعْلٌ

تیرے پاس آنے سے مجھے ایک کام

نے روک لیا۔ لِلْحَرْبِ۔ جنگی

آدمیوں کو لڑائی کے لیے تیار کرنا۔

قَعَدَتِ النَّحْلَةُ۔ کھجور کا ایک

سال چھوڑ کر پھیل دینا۔ الْفَسِيْلَةُ۔

پودے کے لیے تنہ پیدا ہونا۔ الْمَرْأَةُ

عورت کا اپنے خاوند کو کم کرنا۔ نیز

قَعَدَ بِعَنِي صَارَ وَطْفِقَ بَعْنِي

جیسے قَعَدَ يَشْتِمُنِي۔ وہ مجھے گالی

دینے لگا۔

قَعَدَ كُ۔ خدمت کرنا۔ قَعَدَ أَبَاہ۔ اس

نے اپنے باپ کو کمانے سے فارغ کر دیا

قَعَدَ كُ عَنِ كَذَا۔ کسی چیز سے روکنا۔

أَقْعَدَا۔ بٹھانا۔ أَقْعَدَا عَنِ

الْأَمْرِ۔ کسی کام سے روک دینا۔

أَقْعَدَا بِالْمَكَانِ۔ کسی جگہ اقامت

کرنا۔ الْمَوْجِلُ۔ کھڑا کرنا۔ خدمت کرنا

۔ أَبَاہ۔ اپنے باپ کو کمانے کی فکر

سے فارغ کر کے بٹھانا۔ الْبَثْرُ۔

کنویں کو سیٹھنے کی حد تک کھودنا۔ کنویں

کو اس قدر کھودنا کہ پانی نہ نیچے۔

أَقْعَدَ۔ کسی کو مرض قعاد لاحق ہونا۔

مرض قعاد میں آدمی چلنے سے معذور ہو

جاتا ہے گھٹیا کی بیماری۔

تَقَعَّدَ تَوَقَّفَ کرنا۔

تَفَعَّدَ كُ۔ ضرورت سے توجہ پھیرنا۔ حاجت

سے روکنا۔ کام کا انتظار کرنا۔ تَفَعَّدَ

عَنِ الْأَمْرِ۔ کسی کام کی طلب کو

چھوڑنا۔

قَاعَدَ كُ مُقَاعَدَةً۔ کسی کے ساتھ بیٹھنا

اور صحبت رکھنا۔

تَقَاعَدَ بِهِ فَلَانٌ۔ کسی کا حق نہ دینا۔

إِقْتَعَدَ الدَّابَّةُ۔ چوپایہ کو سواری بنانا

مَا اقْتَعَدَكَ عَنْه۔ اس سے تجھ کو

کس چیز نے روکا۔

الْقَعْدُ۔ وہ لوگ جو جنگ میں شریک نہ ہوں

وہ لڑنے والے لوگ جن کا وظیفہ مقرر

نہ ہو۔ خوارج۔

الْقَعْدَةُ۔ اسم مرء۔ انسان کی سواری۔ وہ

چادر جس پر بیٹھتے ہیں۔ وَالْقَعْدَةُ۔



دہ جگہ جو بیٹھنے والے کے نیچے آئے۔
بِئْتَرَقْدًا: بیٹھنے ہوئے انسان
کی لمبائی کے برابر کنواں۔ دُودُ
القَعْدَةِ: بھری سال کا گیارہواں
مہینہ۔

القَعْدَةُ: زمین وغیرہ جس پر آدمی بیٹھتے
ہیں۔ گدھا۔ مِنْ الْإِبِلِ: وہ اونٹ
جس پر بہر ضرورت کے وقت چرواہا
سوار ہو۔ جہ۔ قُعْدَاتُ: نقوشیں

القَعْدَةُ: لوگوں کی سواری۔ نقوشیں
قالین یا درمی۔

القَعْدَةُ: بہت بیٹھنے والا۔ قُعْدَةُ
صُحْبَةٍ: بہت بیٹھنے اور لیٹنے
والا۔

الْإِقْعَادُ وَالْقُعَادُ: ایک مرض ہے جو
جیسے پھرنے سے عاجز کر دیتا ہے۔
گٹھیا۔

القُعَادُ: زوجہ۔

القَاعِدُ: فاعل۔ جہ۔ قُعُودٌ: وہ گونیں
جو غلہ سے بھری ہوئی ہوں۔ وہ عورت
جو خاوند اور بچوں سے خالی اور

محروم ہو۔

القَاعِدَةُ: مؤنث قَاعِل۔ قَاعِدَةُ

النَّمْلِ: ممال مجسمہ کا چوترا۔ القَاعِدَةُ

مِنْ الْبَنَاتِ: گھر کی نیو۔ بنیاد۔

مِنْ الْقُودِ: ہودج کی لکڑی۔

مِنْ الْبِلَادِ: کسی ملک کا سب سے

بڑا شہر۔ جہ۔ قَوَاعِدُ: اصطلاح

میں قاعدہ، اصل، قانون و ضابطہ

کو کہتے ہیں۔ وہ کلی ضابطہ جو اپنے تمام

مُجَرَّیَاتِ پر منطبق ہوتا ہو۔

القُعْدِيُّ وَالْقُعْدِيَّةُ: والقُعْدِيَّةُ

بہت بیٹھنے والا۔ القُعْدِيُّ: عاجز

قُعْدِيٌّ صُحْبِيٌّ: بہت بیٹھنے

اور لیٹنے والا۔

القُعُودُ وَالْقُعُودَةُ: مِنَ الْإِبِلِ۔

بہر ضرورت میں چرواہے کی سواری کا

اونٹ۔ الْقُعُودُ: اونٹ کا بچہ۔

نوجوان اونٹ۔ یہاں تک کہ وہ ٹٹا یا

دانت نکالے۔ جہ۔ أَقْعَدُ دَقْعَدُ

وَقُعْدَانٌ وَقُعَاثُ۔

القُعْدِيُّ: واحد وجمع و مذکر مؤنث تمام

کے لیے ہم نشین، ہم صحبت، محافظ۔

وہ ڈی جس کے پر ٹھیک نہ ہوئے

ہوں۔ پیچھے سے آنے والا پرندہ یا

ہرن جو بدفالی سمجھی جاتی ہے۔

نُطِيعٌ اس کا مقابل ہے۔ قُعِيدًا

كُلُّ أَمْرٍ دَائِمٍ دَائِمٌ دَائِمٌ كَافٍ

فَرَشْتِ۔ فَلَانٌ قُعِيدٌ النَّسَبِ

قَرِيبِ النَّسَبِ۔

القُعِيدُ: قُعُودُ کی تصغیر۔ محاورہ ہے۔

أَتَتَّخَذُ قُعِيدًا الْحَاجَاتِ۔

لوگوں نے اس کو اپنی تمام حاجتوں

میں خادم بنایا۔

الْقُعْدُ النَّسَبِ: وہ رشتہ دار جو جدِ اعلیٰ

سے قریب النسب ہو۔

القُعِيدَةُ: عورت، کیونکہ وہ گھر میں

بیٹھتی ہے۔ بیٹھنے کا فرش وغیرہ۔

خَشَكُ گوشت یا بسکٹ وغیرہ بھرنے

کا تھیلہ۔ لوری۔ جہ۔ قُعَاثُ۔

الْمُقْعَدُ: بیٹھنے کی جگہ۔ جہ۔ مَقَاعِدُ۔

الْمُقْعَدَةُ: بیٹھنے کی جگہ۔ آدمی کا بچلا

حصہ جسم۔ قضاء حاجت کا برتن۔

الْمُقْعَدُ: اپنا سچ گھٹیا کامریض۔ اُٹھی

ہوئی چھاتیاں جو ٹٹکی نہ ہوں۔ گدھے کے

بچے۔ مُقْعَدُ الْإِنْفِ: وہ شخص جس

کے نتھنے کشادہ ہوں۔ مُقْعَدُ

الْحُسْبِ: غیر شریف حسب والا۔

الْمُقْعَدَةُ: مؤنث و قُعْدُ: وہ کنواں

جس کو کھودنے کے بعد اس میں پانی

نہ نکلا ہو اور اس کو چھوڑ دیا گیا ہو۔

الْمُقْعَدَاتُ: مینڈک قطا کے بچے، جو

ابھی چلتے پھرنے کے قابل نہ ہوں۔

القُعْدُ وَالْقُعْدُ دَا الْقُعْدُ دُودُ۔

جِدَا اعلیٰ سے قریبی رشتہ دار۔ جِدَا اعلیٰ

سے بعید النسب (امداد)۔ الْقُعْدُ

نامرد۔ گمینہ۔ شرافت سے دور گنام۔

قَعْرَةُ قَعْرَارٍ: پچھاڑنا۔ قَعْرُ

الشَّجَرَةِ: درخت کو چڑے اکھاڑنا

۔ الْإِنَاءُ: برتن کا تمام کچھ پی جانا۔

الْبَيْتُ: کنویں میں اترنا، اس کو گہرا

کرنا۔ قَعْرَتِ الشَّاةِ: بکری کا تمام

بچہ ڈال دینا۔

قَعْرُ قَعَارَةٍ رَكٍ، الْمَاءُ: پانی کا گہرا

ہونا۔

قَعْرُ الْبَيْتِ: کنویں کو گہرا کرنا۔ فِي

كَلَامِهِ: بات کو حلق سے زور دے

کرنا۔ الْوَجَلُ: چمٹنا۔ الشَّيْءُ:

کسی چیز کو مقعر اور گہرا بنانا۔ پیمانہ

کرنا۔ قَعْرَتِ الشَّاةِ: قبل از وقت

بچہ ڈالنا۔

أَقْعَرَ الْبَيْتُ: کنویں کو گہرا کرنا۔ التَّجْمُرُ

پیلہ وغیرہ برتنوں میں ستارہ کا ظاہر

ہونا۔

تَقَعَّرَ: گہرا ہونا۔ پچھاڑنا۔ اُلُتَا ہونا۔

فِي كَلَامِهِ: بات کو حلق سے نکالنا۔

الشَّيْءُ: مقعر کرنا ہونا۔

أَقْعَرَ: اکھڑ جانا۔ مر جانا۔

أَقْعَرُ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کی گہرائی

اور پیندار پیلہ کلاں۔ پست زمین۔

کامل عقل۔ قَعْرُ الْفَجْرِ: منہ کا

اندرونی حصہ۔ جہ۔ قُعُودُ: کہا جاتا ہے

مَا فِي هَذَا الْقُعُودِ مِثْلُهُ: اس شہر

میں اس کی مثال نہیں ہے۔ جَلَسَ

فُلَانٌ فِي قَعْرِ بَيْتِهِ: فلاں گھر کو



www.waseemziyai.com

کا کھل جانا۔
 الْقَاعِطُ۔ قرضدار پر تنگی کرنے والا۔
 الْقَعَاظُ وَالْمَقْعُطُ۔ انتہائی تکبر۔
 الْقُعْطُ۔ بہت سی بکریاں۔
 الْمَقْعُطُ وَالْمَقْعُطَةُ۔ عمامہ، سر پہ باندھنے کا پٹا۔
 تَعْطِيبُ الشَّيْءِ۔ کاٹنا۔
 تَعْطَرُہُ۔ بچھاڑنا، باندھنا۔ تَعْطَرُ۔
 الْوَنَاءُ۔ برتن کو بھرنا۔
 اَدْعَطُوہُ۔ سانس منقطع ہونا۔
 قَعُوتُہُ۔ بچھاڑنا۔ علیٰ غریبہ۔ قرض کا مطالبہ کرنے میں سختی کرنا۔
 الْقُعُطُ۔ تیز رفتار۔
 تَعَفَّ تَعْفَادُفُ۔ التَّوَابُ۔ تیز چلنے کی وجہ سے پاؤں سے غبار اڑانا۔
 الْمُنْخَصَةُ۔ جڑ سے اکھاڑنا۔ مَا فِي الْإِنَاءِ۔ برتن کا سب کچھ ہرپ کر جانا۔
 الْمَطَرُ الْحِجَارَةُ۔ تیز بارش کا پتھر کو زمین سے بٹا دینا۔
 تَعَفَّتْ تَعْفَادُسُ، الْحَايْطُ۔ دیوار کا گر جانا۔
 تَعَفَّتْ وَالتَّعَفَّتْ وَاقْتَعَفَتْ۔
 الْحَايْطُ۔ دیوار کا جڑ سے منہدم ہو جانا۔
 الْحَرْوُ۔ کنارہ کا ڈھاتا۔
 الشَّيْءُ۔ اپنی جگہ سے پھسل جانا۔
 اِقْتَعَفَتِ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو انتہائی رغبت سے لینا۔
 التَّعَفُّفُ۔ چھوٹے پہاڑ جو ایک دوسرے پر واقع ہوں۔
 الْقَاعِطُ۔ ناعل۔ شدید بارش۔ سَيْلُ قَوَاتٍ۔ وہ سیلاب جو سب کچھ بہا لے جائے۔
 تَعَفَّرَ الرَّجُلُ۔ ران اور گھٹنے ملا کر اکڑوں بیٹھنے والے کی طرح بیٹھنا۔
 فِي مَشِيءٍ۔ چھوٹے قدموں سے چلنا۔

لَهُ الْكَلَامُ۔ سختی سے کلام کر کے کسی کو اپنے آپ سے دور کرنا۔
 تَعَفَّرَ الرَّجُلُ۔ آدمی کا بیٹھنا۔
 اِقْتَعَفَزَ۔ اس شخص کی طرح بیٹھنا، جو کودنے کے لیے تیار ہو۔
 تَعَفَّرَ تَحَفُّعَةً۔ السِّلَاحُ۔ ہتھیار کا کا آواز کرنا۔ تَعَفَّعَتْ عُمْدُهُمْ۔ قوم کا کوچ کر جانا۔ الشَّيْءُ الْيَاسِي۔ خشک چیز کو حرکت دینے سے آواز کا پیدا ہونا۔ الْقِدَاسُ۔ تھریں تیروں کا گھمانا۔ فِي الْأَرْضِ۔ جانا۔ فَلَانٌ لَا يَقْعُقُ لَهٗ بِالْيَسَانِ۔ فلاں زمانہ کے حادثوں سے نہیں گھبراتا اور بے اصل چیزیں اس کو خوفزدہ نہیں کرتیں۔
 تَعَفَّقَ۔ مضطرب ہونا، متحرک ہونا۔ متحرک ہونے کے وقت آواز نکلنا۔
 تَعَفَّقَتْ عُمْدُهُمْ۔ قوم کا کوچ کرنا۔
 الْفُعْفُعُ۔ سفید و سیاہ رنگ۔ لمبی دم کا کتا۔
 الْفُعْفَاعُ۔ ہتھیاروں کی آواز۔ خشک کھجور جاڑے کا بخار۔ دشوار گزار راستہ۔ وَالْفُعْفَاعِيُّ۔ وہ شخص جس کے چلنے کے وقت پاؤں کے جوڑوں کی کڑکڑاہٹ سنائی دے۔
 الْقَعَاقِعُ۔ سخت گرج کی آواز کا تسلسل۔
 يَه تَعَفُّعَةً۔ جمع ہے۔ الْقَعْفُوعَةُ۔ دانتوں کی کڑکڑاہٹ۔
 الْقَعَاقِعُ۔ بہت آواز دینے والا۔
 اَتَعَلَّ وَارْتَعَالَ اِقْعِلَالًا۔ الشَّوْرُ۔ بھول کے کڑھے پھوٹنا۔ اَتَعَالَ۔ اَلْزَكْبُ۔ سیدھا کھڑا ہونا۔
 اِقْتَعَلَ الْقَعَالَ۔ درخت سے ہاتھ کے ذریعہ جھاڑ کر پھول کرانا۔

الْقُعَالَةُ۔ قُعَال کا واحد۔ بھول کی ڈنڈی اور اندرونی حصہ جو جھڑ جائے۔ ادنٹ کی گرنے والی اون۔
 قَعَمَ قُعَادَانِ، السِّنَوْرُ۔ بلی کا آواز کرنا۔
 قُعِمَ قُعَادُاسٌ، وَقُعِمَ۔ الرَّجُلُ۔ ایسا مرض لاحق ہونا جو فوری موت کا موجب ہو۔
 اُقْعِمَتِ الْحَيَّةُ فُلَانًا۔ سانپ کا ڈس کر ہلاک کرنا۔ الشَّمْسُ۔ سورج کا چڑھنا۔
 الْقَعْمُ۔ ناک کا ٹیڑھا پن۔
 الْاِقْعَمُ۔ ٹیڑھی ناک والا۔
 قُعْمَةُ الْمَالِ۔ بہترین مال۔
 الْقُعْمُوطُ وَالْقُعْمُوطَةُ۔ پوترے۔
 نَوَازِيدُہُ۔ بچے کو لپیٹنے کے کپڑے۔ یہ قُعَامِيَّةٌ۔
 قَعِنَ قَعْنًا رَسًا، الْاَنْفُ۔ ناک میں نہایت چھوٹا پن ہونا۔ ناک کی نوک کا بلند ہونا۔ صَفَتِ اَقْعَنُ۔ موزن قَعْنَاءُ۔ تصغیر قَعْنِيٌّ۔
 الْقَعْنُ۔ بڑا اتار یا کوٹا جس میں آٹا گوندھا جاتا ہے۔
 قَعُوشَةُ۔ بچھاڑنا۔ قَعُوشَ الْبِنَاءِ۔ توڑنا۔
 تَقْعُوشُ الْبَيْتِ۔ مکان کا منہدم ہونا۔
 الْجَدُّعُ۔ تنہ کا ٹیڑھا ہونا۔
 قَعِي يَقْعِي قَعًا۔ ناک کی چونچ کا بلند ہونا اور پھر اس کا ناک کے بانسہ کی طرف جھکنا۔ صَفَتِ اَقْعِي۔ موزن قَعَوَاءُ۔
 اَقْعَى الْكَلْبُ۔ کتے کا چوڑے کا اور پر بیٹھنا۔
 اَنْهَهُ۔ ناک کی نوک کا بلند اور بانسہ کی طرف مائل ہونا۔ قَرَسَبُهُ۔ گھوڑے کو واپس لوٹانا۔

الْقَعْوُ۔ لوہے کا محور۔ لاط۔ الْقَعْوَانِ۔
دو لوہے یا لکڑی کی سلاخیں جن میں
محور ہوتا ہے یا جن کے درمیان چرخ
گردش کرتی ہے۔ ج۔ قَعِيٌّ۔
الْقَعْوَةُ۔ چڑھا۔ ران کی جسط۔ ج۔

قَفَّ قُفُوقًا (د)، الْعُشْبُ أَوْ
الشَّيْعُ۔ شدت خوف سے رد گئے
کھڑے ہونا۔ الشَّيْعُ۔ ایک کا جزو
دوسرے میں گتھ جانا اور سکر جانا۔
کہ وہ قَفَّ کی طرح معلوم ہو۔ التَّوْبُ
کپڑے کا دھونے کے بعد سونکھنا۔
الصَّيْتُ فِي۔ صرف کا اپنی انگلیوں
میں درہم چرانا۔

أَقَفْتُ۔ چراگاہ کو خشک پانا۔ أَقَفْتُ
الْمُدَّجَا حَةً۔ مرغی کا کڑک ہونا۔
انڈوں سے رک جانا۔ الْعَيْنُ۔
آنکھ کے آنسو ختم ہونا۔
اسْتَقَفْتُ۔ سکرنا۔ سَمْنَا۔

الْقَفْتُ وَالْقَفِيفُ۔ عمدہ سبزیوں جو
خشک ہوں۔

الْقَفْتُ۔ کوتاہ قد۔ کسی چیز کا ظاہر بکھلاڑی
کا سوراخ۔ کھلاڑی جیسی چیز زمین کا
بلند جسم۔ وہ پتھر جو ایک دوسرے
کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور ان کے
ساتھ پست زمین نہ ہو۔ بادلوں کی
بڑی گھٹا جو پہاڑ کی طرح معلوم ہو۔
قَفْتُ الْبَيْتِ۔ کنویں کی من۔ کنویں
کے چاروں طرف کا چوتراہ۔ مِنْ
النَّاسِ۔ گھٹیا اور ادنیٰ درجہ کے
لوگ۔ ج۔ قِفَاتٌ وَأَقِفَاتٌ۔

الْقَفَّةُ۔ خشک درخت۔ ٹھنڈی زمین۔
خشک کرد۔ کھلاڑی کی طرح کوئی
چیز۔ بلند زمین۔ بھور کے پتوں کی بنی
ہوئی ڈلیا، ٹوکری۔ ج۔ قُفَفَتْ۔

الْقَفَّةُ وَالْقَفَّةُ۔ مِنَ التَّجَالِ۔
پستہ قد آدمی کمزور شخص۔ الْقَفَّةُ
وَالْقَفَّةُ وَالْقَفَّةُ۔ لرزہ اور
پھیری جو بخار سے ہوتی ہے۔
الْقَفَّةُ۔ اسم نوع۔ نوزائیدہ بچے کے
پیٹ سے پہلی مرتبہ ہونے والے نکلے۔
کاٹ۔

الْقَفَاتُ۔ وہ صرف جو درہم کو انگلیوں
میں چرائے۔

الْقَفَانُ۔ امین۔ بولا جاتا ہے اَتَيْتُهُ
عَلَى قَفَانٍ ذَلِكَ۔ میں اس کے
پچھے آیا۔ هَذَا أَقْفَانُهُ۔ یہ اس کا
وقت ہے۔

قَفِيٌّ۔ قَفَا دس، المکان کسی جگہ کی
سبزی کا بارش سے یا مٹی پڑنے سے
خراب ہونا۔

اِقْتَفَا الْخَرَسَ۔ چہرے کی اشیاء کو
مکرسینا۔

قَفَّتْ الشَّيْءُ۔ جلدی سے ہالے جانا۔
قَفَحَهُ قَفْحَادًا، مکروہ سمجھنا۔ ترک
کرنا۔ الشَّيْءُ۔ دوا کی طرح پھانکنا۔

قَفَحَ عَنِ الشَّيْءِ۔ باز رہنا۔
الْقَفِيحَةُ۔ وہ مکھن جس پر بکری کا دودھ
دولا جائے۔

قَفَحَهُ قَفْحًا وَقَفْحًا خَادًا، مارنا۔
کھوکھلی یا خشک چیز یا سر پر مارنے
کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

الْقَفِيحَةُ۔ کھانا۔

قَفَدَ قَفْدًا (د)، الرَّجُلُ۔ کام کرنا۔
محاورہ ہے مَا زِلْتُ أَقْفِدُ لَكَ
مِنْ الْيَوْمِ۔ میں آج دن بھر تھارے
لیے کام کرتا رہا۔ قَفْدًا۔ گدی پر

دھول مارنا۔ بغیر شلہ کے پکڑی باندھنا۔
قَفَدَ قَفْدًا (دس) أَقْفَدُ ہونا۔

الْأَقْفَدُ۔ ہلکی ہوئی یا موٹی گردن والا۔

پنجوں کے بل بغیر اپنی سکاٹے چلنے والا
سخت ماتھے پیروں اور چھوٹی انگلیوں
والا۔ ثَوْنَتْ قَفْدًا۔ اِعْلَمَ
الْقَفْدَاءُ أَوِ الْقَفْدَ۔ عامر باندھنا
اور شلہ نہ چھوڑنا۔

الْقَفْدَانُ وَالْقَفْدَانَةُ۔ سرمہ دانی کا
غلاف۔ عطر وغیرہ کے لیے چمڑے کی
تھیلی (دونوں کلمے ذیل میں)

قَفَرَقَفَرَانِ، دَقَفَرٌ وَأَقْفَرٌ۔
الْأَثَرُ۔ اتباع کرنا تعاقب و تلاش

کرنا۔ اِقْتَفَرَ الْعَظْمَ۔ ہڈی کو
چوسنا۔

قَفِرَ قَفْوًا (دس)، مَالُهُ۔ مال کم ہونا۔
صفت قَفْوٌ ہے۔ الطَّعَامُ۔ کھانا

بغیر سالن کے ہونا۔ قَفَرَ الشَّرَابُ
مٹی کو جمع کرنا۔ أَقْفَرُ۔ بے پانی و

چارہ والے جنگل کی طرف جانا۔
الْمَكَانُ۔ آدمی و پانی و گھاس سے

خالی ہونا۔ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ۔
اپنے اہل و عیال سے جدا ہو کر تنہا رہ

جانا۔ دَأَسَهُ مِنَ الشَّيْءِ۔ سرکا
بالوں سے خالی ہونا۔ الرَّجُلُ بھوکا

ہونا۔ کھانے کا چلا جانا۔ سالن کا باقی
نہ بچنا۔ بلا سالن کے روٹی کھانا۔

الْبَلَدُ۔ شہر کو آدمیوں سے خالی پانا۔
الْعَظْمَ۔ ہڈی پر گوشت نہ

چھوڑنا۔ الْقَفَرُ۔ ج۔ قَفَاؤُ و
قُفُوءُ وَالْقَفْرَةُ۔ ج۔ قَفَرَاتُ

زمین کا وہ میدان جس میں نہ گھاس ہو
نہ پانی نہ آدمی۔ اَرْضٌ قَفْرٌ وَ اَرْضٌ

قَفْرٌ۔ چٹیل میدان جس میں گھاس و
پانی نہ ہو۔ محاورہ ہے نَزَلْتُ

بَيْنَهُنَّ فَلَانَ فَيَسْتَنُ الْقَفْرَ۔ ہم
فلاں قبیلے کے پاس جمان گئے۔ مگر

انہوں نے ہماری مہمانی نہ کی۔ بَاتَ

فَزَنَ الْقَفْرَ وَالْوَحْشَ. فلاں کی
مہمان داری نہیں کی گئی۔ التففر۔ وہ
بچھڑا جو کھیتی کی غرض سے اپنی ماں سے
پھڑپھڑایا جائے۔

الْقَفْرُ. بال۔

الْقَفْرُ. کم بالوں والا۔ بیٹھریا جو سیاہان میں
رہتا ہو۔ خُبْرُ قَفْرٍ وَقَفَارٌ. بلا سالن
کی روٹی۔

الْقَفِيرُ. شہد کا چھتر (لغت عامیانا ہے)
ٹوکر۔ بغیر سالن کی روٹی۔ ج۔

قَفْرَانٌ.

انْقَادُورٌ وَالتَّنْشُورُ وَالْقَفُورَةُ. کھجور
کے پھولوں کا غلاف۔ اَرْضٌ بِقَفَارٍ.
خالی زمین۔

قَفَرٌ قَفَرٌ اَوْ قَفَرٌ اَنَا وَقَفَارٌ اَوْ قَفُورٌ
رض، مرجانا۔ الغزال۔ کودنا۔

قَفِرَ قَفْرًا ارس، افسوس گھوڑے کی
اگلی ٹانگوں کا ٹھنوں تک سفید ہونا۔
اور پھیلنے کا سفید نہ ہونا۔

قَفَرٌ. کودنا۔

تَقَفَّرَ بِالْحِجَاءِ. ہاتھ پیروں کو ہندی
سے رنگین کرنا۔

تَنَاقَزَ الْقَوْمُ. قوم کا باہم کودنا۔

النَّفَرِيُّ. کودنا۔ عَدَاتُ الْحَيْلِ النَّفَرِيُّ
گھوڑے کا اچھلتے ہوئے دوڑنا۔

النَّفَرَةُ. مؤنث قافِزٌ. تیز رفتار گھوڑا۔

سَيْدُكَ. ج۔ قَوَافِزُ.

النَّفِيرُ. پیانا۔ مِنَ الارض. ایک سو
چوالیس گز ایک گز ایک ہاتھ بھر کا)

أَقْفَرَةٌ وَخَفَرَانٌ.
الْأَقْفَرُ وَالْأَرَّةُ ذُرٌّ مِنَ الْحَبْلِ. وہ
گھوڑا جس کی صرف اگلی ٹانگیں گھٹنوں
تک سفید ہوں
الْقَفَارُ. عورتوں کے ہاتھ اور پاؤں کا
زیور۔ دستانہ۔ عامیانا لغت میں

كُفُوفٌ بولا جاتا ہے۔ ج۔ قَفَا فِيزُ.
الْقَفَارُ. بہت اچھلتے والا۔

الْقَفِيرِيُّ. بچوں کا ایک کھیل ہے جس
میں ایک کڑی گاڑ کر اس پر سے

کودتے ہیں۔
قَفَسَ قَفْسًا وَقَفُوسًا رَضَ. مرنا۔

الشيء. چھین کر اور غصب کر کے
لینا۔ قُلْدًا. بال پکڑ کر۔ نیچے

گھسیٹنا۔ قَفَسًا. (الطَّبِيُّ) ہرن کے
ہاتھ پیر باندھنا۔ قَفَسًا. جوڑوں

میں تشبیح کی قسم کا مرض ہونا۔
قَفَسَ قَفْسًا. ناک کی نوک کے کنارہ

کا بڑا ہونا۔
تَقَفَسَ الطَّبِيُّ. کودنا۔

تَقَفَسَ الرَّجُلَانِ بِشَعُورِهِمَا. اچھل
کر ایک دوسرے کے بال پکڑنا۔

القَائِسَةُ. مؤنث قافِز. کینے اشخاص
قَفَاسٍ (کسرہ پر مبنی ہے) کینی

لوٹڈی۔
الْأَقْفُسُ. لوٹڈی لٹکا۔ ہر وہ چیز جو لمبی

ہو کر جھک جائے۔ عَبْدٌ أَقْفُسٌ
کینہ غلام۔

الْقَفَسَاءُ. مؤنث أَقْفُسٍ کینی لوٹڈی
معدہ اور پیٹ۔

قَفَسَ قَفْسًا رَضَ. الطَّعَامُ. شدت
کے ساتھ کھانا۔ الشيء. لینا، اور

جمع کرنا۔ قَفَسَهُ بِالْعَصَا. لاکھی
سے مارنا۔ الناقلة. جلدی دوہنا۔

مَا فِي الصُّرْعِ. جو کچھ حق میں ہو
اس کو دوہنا۔ قَفَسًا وَقَفُوسًا. مرنا۔

انْقَفَسَ وَانْقَفَسَ دَا قَفَنَشَشَ۔
العنكبوت ونحوہ۔ سکرنا اور

اپنے پنچوں اور ٹانگوں کو جسم سے
چمٹا لینا۔
الْقَفْسُ. نشاط۔ چھوٹا موزہ۔

الْقَفْسُ. چور۔

قَفَصَ قَفَصًا رَضَ. الطَّبِيُّ. ہرن کی
ٹانگوں کو سیڑ کر باندھنا۔ الشَّوْمُ.

کسی چیز کے اجزاء قریب قریب کرنا۔
جَوْرُنَا. الرَّجُلُ. تکلیف دینا۔

الْيَعْسُوبُ. شہد کی کھیتوں کے
مردار کو دھاگے میں باندھ کر چھتر

میں رکھنا۔
قَفَصَ قَفَصًا دَسَ. ہلکا اور چست ہونا۔

سردی سے سکرنا اور اکڑنا۔ الْقَرَسُ
گھوڑے کا اپنی پوری دور کو ظاہر

کرنا۔ صفت قَفِصٌ.
قَفَصَ السَّطَبِيُّ. ہرن کی ٹانگیں جمع کر

کے باندھنا۔
تَقَفَصَ. سکرنا سمٹنا۔

تَقَافَصَ. اجزاء کا ایک دوسرے میں
داخل ہونا۔ سکرنا۔

أَقْفَصَ الرَّجُلُ. پندہ کے بنجرہ کا
مالک ہونا۔

الْقَفَصُ. بنجرہ. الْقَفَصُ. وہ بزن جس
میں گیہوں وغیرہ جمع کر کے ساف کیا

جائے۔ غلہ افشاں۔ ج۔ أَقْفَاصُ
والْقَفَصُ وَالْقَفَصُ. وہ چیز جس

کے اجزاء ایک دوسرے کے اندر
داخل ہوں۔ گڑبڑ۔

النَّاقِصَةُ. مؤنث قافِز. ج۔ قَوَافِزُ
کینے لوگ۔

الْقَفَاصُ. پہاڑی بکرا۔ ایک مرض جو
چوپایوں کو عارض ہوتا ہے اور ان کی

ٹانگوں کو خشک کر دیتا ہے۔
الْمُقَفَّصُ. مفعول۔ ثوبٌ مُقَفَّصٌ۔

بنجرہ جیسے خطوط سے منقش کپڑا۔
قَفَعْلَةُ قَفَعَارٍ. بِالْمُقَفَّعَةِ. چھڑی

سے مارنا۔ قَفَعْلَةُ عَنْ كَذَا. کسی کو
کسی چیز سے باز رکھنا۔



قَفَعَتْ قَفْعًا دَسًا، وَتَقَفَعَتْ الْأُذُنُ
کان کے اطراف کا سمٹنا اور سکڑنا۔
ایسے کان کی صفت قَفْعَاءُ، اور
ایسے کان والے کی آقَفْعُ ہے۔
الْيَرْجُلُ۔ قدم کی انگلیوں کا پیچھے کی
طرف ہڑنا۔ انْشَاءً۔ بکری کی دُم
چھوٹی ہونا۔ تَقَفَعُ الشَّيْءُ۔ سکڑ
جانا۔
قَفَعُ الشَّيْءُ۔ برتن میں رکھنا۔ الْبَرْدُ
أَصَابَهُ۔ سردی کا انگلیوں کو سکڑنا
اور اکڑا دینا۔
انْقَفَعَ النَّبَاتُ۔ نباتات کا خشک اور
سخت ہونا۔ عَثُ۔ باز رہنا۔
انْقَهَرُ۔ جنگ کے آلات میں سے ایک
آلہ ہے جس کو فلوں کے فتح کرنے
کے وقت استعمال کرتے تھے۔ اس
کے اندر آدمی داخل ہو جاتے تھے۔
اور اس کو قلعہ کی دیوار تک لیجاتے
تھے اور اس کے اندر بیٹھ کر قلعہ میں
نقب لگاتے تھے۔ واحد قَفْعَةٌ ہے
القَفْعُ۔ تنگی، مشقت، تکلیف، ٹھکن۔
انْقَفَعَةُ۔ وہ ڈوکری جس کا پتلا حصہ فراخ
اور اوپر کا حصہ تنگ ہو۔ ج۔ قَفَاعٌ
وَقَفَعَاتٌ۔
الْقَفْعَةُ۔ ٹھٹی دل۔
الْقَفَاعُ وَالتَّقَاعُ۔ بکری کی ٹانگ کی
ایک بیماری جو اس کو لنگڑی کر دیتی ہے
الْقَفَاعُ۔ اسم مبالغہ۔
انْقَفَاعُهُ۔ کھجور کی شاخ سے بنی ہوئی چیز
جس کو پرندہ پر پھینک کر اس کا شکار
کیا جاتا ہے۔
الْأَخْفَعُ۔ سکڑے ہوئے اطراف کے کافوں
والا۔ ایسے پیروالا جس کی انگلیاں قدم
کی طرف مڑی ہوئی ہوں۔ ہمیشہ سر کو
نیچے ٹکانے والا۔ چھوٹی دُم والا۔

الْقَفْعَاءُ۔ آقَفْعُ کی مؤنث۔ ج۔ قَفْعٌ۔
ایک بوٹی ہے جس میں انگوٹھی جیسے حلقے
لگتے ہیں۔ مگر انگوٹھی کے حلقوں کی طرح
ان کے دونوں سرے جڑے ہوئے
نہیں ہوتے۔ شَاةٌ قَفْعَاءُ۔ چھوٹی
دُم والی بکری۔
المَقْفَعُ۔ ہمیشہ سر کو جھکانے والا آدمی۔
رَجُلٌ مَقْفَعٌ الْيَدَيْنِ۔ اکڑے
ہوئے ہاتھوں والا مرد۔
المَقْفَعَةُ۔ وہ کڑی جس سے ہاتھ یا انگلی
پر ضرب لگائی جائے۔
قَفَفْتُ قَفْفَةً دَقَفَفْتُ۔ جاڑے
وغیرہ سے لرزنا۔ التَّبَرْتُ۔ نباتات
کا خشک ہونا۔
قَفَفًا الظَّائِرُ۔ پرندہ کے دونوں بازو۔
قَفَفًا الْبُعِيرُ۔ اونٹ کے دونوں
جڑے۔
قَفَلٌ قَفْلًا وَقَفُولًا (مض) سفر سے
واپس آنا۔ فی الجبَلِ۔ چڑھنا۔
الْأَمِيرُ الْجُنْدُ۔ امیر کا لشکر کو
واپس بلانا۔ الشَّيْءُ۔ تخمینہ کرنا۔
قَفْلًا الطَّعَامُ۔ جمع اور ذخیرہ کرنا۔
قَفَلْتُ قَفُولًا (مض)۔ القَفْلُ۔
گھوڑے کا لاغر ہونا سفت قَافِلٌ۔
قَفَلْتُ قَفُولًا (مض) وَقَفِلْتُ قَفْلًا (مض)
الْجُنْدُ۔ کھال کا سوکھ جانا۔
قَفَلُ۔ الْجُنْدُ۔ کھال کا خشک ہونا۔
الْأَبْوَابُ۔ دروازوں کو بند کرنا۔
أَقْفَلَ الْبَابَ وَعَلَى الْبَابِ۔ مکان کو
قفل لگانا۔ الْبَابُ۔ دروازہ بند
کرنا۔ الْقَوْمُ۔ راہی نظر کو قوم کے
پیچھے جمانا۔ أَقْفَلَهُمْ عَنْ مَبْعَثِهِمْ
جس جگہ پیچھے گئے تھے، وہاں سے
واپس بلانا۔ الْجُنْدُ۔ کھال کو
خشک کرنا۔ الْمَالُ۔ تمام مال ایک دم

عطا کرنا۔ الْقَوْمُ عَلَى الْأَمِيرِ۔ کسی
معاہدہ پر قوم کو جمع کرنا۔ الْجَبِيشُ۔
لشکر کا واپس آنا۔
تَقَفَّلَ وَانْقَفَلَ دَاقَتَفَلَ الْبَابُ۔
دروازہ کا بند ہونا۔ تَقَفَّلَ فِي
الْجَبَلِ۔ پہاڑ پر چڑھنا۔ انْقَفَلَ
الْعُزَّةُ۔ مجاہدین کا واپس آنا۔
الرَّجُلُ۔ جس معاملہ میں مصروف ہو اس
کو جاری رکھنا۔
اسْتَقَفَلَ الْبَابُ۔ دروازہ بند کیا جانا۔
الرَّجُلُ۔ بخیل ہونا۔ اسْتَقَفَلْتُ
يَدَايَ۔ بخیل، کنجوس آدمی۔ صفت
مُسْتَقْفِلٌ ہے۔
القَفْلُ۔ مصدر۔ والقَفْلَةُ دَالِقَفْلَةُ
درخت کا خشک حصہ۔ القَفْلَةُ۔
گدی۔ کوئی چیز ایک دم دے دینا۔
محاورہ میں بولا جاتا ہے أَعْطَاكَ
أَلْفًا قَفْلَةً۔ ایک ہزار بیک وقت
دے دیا۔
القَفْلُ۔ تالہ۔ ج۔ أَقْفَالُ وَأَقْفُلُ وَ
قَفُولُ۔
القَفْلُ۔ اسم جمع ہے بمعنی قافلہ۔
القَفْلَةُ۔ بہرشی ہوئی بات کو یاد کرنے
والا۔
القَافِلُ۔ فاعل۔ خشک کھال یا ہاتھ والا۔
لوٹنے والا۔ ج۔ قَافِلَةٌ وَقَفَالٌ۔
القَافِلَةُ۔ مؤنث قافل۔ سفر شروع کرنے
والے یا واپس لوٹنے والے ساتھی۔
سفر شروع کرنے والے کو تَقَاءُ لَ
قافلہ کہتے ہیں۔ ج۔ قَوَافِلُ۔ خیل
قَوَافِلُ۔ لاغر گھوڑے۔
القَفِيلُ۔ خشک درخت۔ کوڑا تنگ درہ۔
جِلْدٌ قَفِيلٌ۔ خشک کھال۔
القَفَالُ۔ اسم مبالغہ۔
الْقَفِيَالُ۔ ہاتھ میں کسی کے پاس ایک رگ



ہے جس کی فصد کی جاتی ہے۔ رَجُلٌ مُّقْفَلٌ أَلْيَدَيْنِ وَمُتَقِفٌ لَهَا مَادُّ مُتَقِفٌ لَهَا۔ کنجوس آدمی جس کے ہاتھ سے کوئی خیر نہ صادر ہو۔

قَفْنَهُ قَفْنًا دَن، گدی پر مارنا۔ کوٹے یا لالٹھی سے مارنا۔ الْكَلْبُ۔ کتے کا برتن میں منہ ڈالنا وَأَقْفَنَ وَأَقْفَنَ۔ القَفَاةُ۔ گردن کی طرف سے ذبح کرنا۔ ایسی ذبح شدہ بکری قَفِينَةٌ ہے۔

قَفْنٌ قُفُونًا رَض، مرنے۔

قَفْنٌ رَأْسُهُ، سر کا ٹٹا۔

الْقَفْنُ، مصدر۔ موت جنگ۔

الْقَفْنُ وَالْقَفْنُ، گدی۔

الْقَفْنُ، گنوار۔ بے تہذیب۔

الْقَفَانُ، این۔ توڑنے کا کاٹا۔ قَفَانٌ

کُلُّ شَيْءٍ، کسی چیز کا مکمل علم۔ شَاةٌ

قَفِينٌ، مذبحہ بکری۔

قَفَا يَقْفُو قَفْوًا وَقَفْوًا دَن، الرَّجُلُ

گدی پر مارنا۔ صراحتہ فسق و فجور کی

تمت لگانا۔ أَثَرُهُ، پیچھا کرنا۔

اللَّهُ أَثَرُهُ، کسی کے اثر کو مٹانا۔

وَأَقْفَى وَأَقْفَى، الرَّجُلُ بِأَمْرِ،

کسی کو کسی امر کی وجہ سے ترجیح دینا۔

یا خاص کرنا۔ أَقْفَى كَذَا عَلَى كَذَا،

کسی کو کسی پر فضیلت دینا۔ اِقْتَفَى

کسی کی اتباع و پیروی کرنا۔ اِقْتَفَى

الشَّيْءَ، کسی چیز کو منتخب کرنا۔ اِقْتَفَى

بِفُلَانٍ، اپنے آپ کو کسی کے ساتھ

مخصوص کرنا۔

قَفَى تَقْفِيَةً، آنا۔ فَلَانًا زَيْدًا و

بَزِيدًا، کسی کو زید کے پیچھے چلانا۔

قَفَى عَلَى أَثَرِهِ، بِفُلَانٍ، فلاں کو

کسی کے پیچھے چلانا۔ کسی کی پیروی کرنا

قَفَى عَلَيْهِ، لے جانا۔

تَقْفَى، الرَّجُلُ، آدمی کے پیچھے چلنا۔

الْأَكْمَرَةُ، بیلہ کی چوٹی پر چڑھنا۔

الشَّيْءَ، منتخب کرنا۔ يَفْلَانِ، عزت

کرنے میں مبالغہ کرنا۔ وَاسْتَقْفَى

فُلَانًا بِالْعَصَا، کسی کے پیچھے سے

گدی پر عصا مارنا۔ تَقَا فِي الرَّجُلِ،

کسی پر غلط و جھوٹ تمت لگانا۔

الْقَدُومُ، قوم کا ایک دوسرے پر

بتان لگانا۔

الْقَفَا وَالْقَفَاءُ، گدی۔ گردن کی پشت۔

مذکر ہے مگر کبھی مؤنث بھی آتا ہے

ج۔ أَقْفَ وَأَقْفِيَّةٌ وَأَقْفَاءُ

وَقَفِيٌّ وَقَفِيٌّ وَقَفُونُ، کہا جانا

ہے لَا أَفْعَلُهُ قَفَا الدَّهْرِ، میں

زمانہ بھر نہیں کروں گا۔

الْقَفْوَةُ، بارش کے وقت اٹھنے والا

غبار۔ صَفْوَةٌ قَفْوَةٌ، مختار و

پسندیدہ و برگزیدہ۔ يَشَى الْقَفْوَةَ

قَفْوَتَكَ، اس شخص کو کہا جاتا ہے

جو اچھا انتخاب کرنا نہ جانتا ہو۔

الْقَفْوَةُ، تمت۔ بری چیز کا الزام لگانا۔

جُرْمٌ۔

الْقَفَاةُ، شفقت و مہمان کی عزت و

استقبال۔ دعوت طعام جس چیز

سے مہمان کی تواضع کی جائے، موروٹی

عزت۔

الْقَفِيَّةُ، وہ گڑھا جس میں چھپ کر شکاری

شکار کھینتا ہے۔

الْقَفِيَّةُ، عیب۔

الْقَفَى، مشفق، مہربان، مہمان، معزز۔

وہ کھانا جس کے ذریعہ خاطر و تواضع

کی جائے۔ منتخب بھائی، متم بھائی۔

هُوَ قَفِيَّتُهُمْ دَقْفِيَّتُهُمْ، ان

کا رہ جانے اور قائم مقام ہے۔

الْقَفِيَّةُ، کسی پر فوقیت اور فضیلت

جانب و جہت۔ وہ کھانا جو مہمان کو پیش کیا جائے۔ شَاةٌ قَفِيَّةٌ، وہ بکری جو گدی کی طرف سے ذبح کی گئی ہو۔ بولا جاتا ہے۔ لَا أَفْعَلُهُ قَفِيَّةَ الدَّهْرِ زمانہ بھر اس کو نہیں کروں گا۔

الْقَفَاةُ، گردن کا پچھلا حصہ۔ شعرا

آخری کلمہ یا آخری حرف ساکن، مع

اس کے ماقبل متحرک کے۔ ج۔

قَوَايِ، قَفَاةٌ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز

کا آخر۔ آتَيْتُهُ عَلَى قَفَايَةِ الشَّيْءِ،

میں اس کے پاس شے کے بعد آیا۔

الْكَلَامُ الْمُقْفَى، (شعرا کے یہاں)

کلام کا آخری حرف میں مطابق یکدیگر

ہونا۔ کلام میں سمیع پایا جانا۔ مسجع

کلام۔

التَقْفِيَّةُ، مصدر۔ شعرا کے نزدیک

کلام کا آخری حرف پر مطابق ہونا۔

الْمُقْفَى، مِنَ الْقَنْجِ، وہ بکری جس کو

گردن کی طرف سے ذبح کیا گیا ہو۔

رَجُلٌ مُقْفَى وَمُقْفَى بِهِ، معزز و

مکرم شخص۔

قَفَى يَقْفَى قَفِيًّا، الرَّجُلُ، گدی پر

مارنا۔ بے حیائی کی تمت لگانا۔

الْقَفِيَّةُ، اس کے معنی ماقبل میں

مذکور ہو چکے ہیں۔

الْقَفَاةُ، ایک ہندوستانی بوٹی جس کا

پھل الالچی ہے۔ الالچی۔ الْقَفَاةُ

نمکین گھاس مثل اشنان کے۔ لانی

بوٹی۔

الْقَفَاةُ وَالْقَفَاةُ، نیوے کی شکل کا

اور اس سے بڑا ایک جانور جس کا رنگ

گرمی میں گہرا سرخ اور سردی میں اجلا

سفید ہوتا ہے۔

قَفَى قَفَاةً وَقَفَاةً رَض، کم ہونا۔

الرَّجُلُ، مال کم ہونا۔ اَلْجَسْمُ، لاغر

ق

اور کم ہوتا۔ قُلْ عَنْ كَذَا كَيْسِي جِز سے چھوٹا ہونا۔
 قُلْ الشَّيْءُ - بلند ہونا۔ کبھی قُلْ کے ساتھ
 کما بھی لاحق ہوتا ہے اور بولا جاتا
 ہے قُلْنَا جَعَلْتَنكَ - میں تیرے پاس
 بہت کم آیا۔ یہ مَا قُلْ کو رفع دینے
 سے باز رکھتا ہے۔ اسی لیے اس کے
 بعد فاعل کی ضرورت نہیں رہتی۔ قُلْنَا
 سے کبھی مکمل نفی مراد ہوتی ہے اور کبھی
 کوئی قلیل چیز ثابت ہوتی ہے۔
 قُلَا الشَّيْءُ - کسی چیز کو اٹھانا۔ قُلْهُ
 عَنِ الْأَرْضِ - زمین سے بلند کرنا۔
 قُلْ الشَّيْءُ - بھڑا کرنا۔ الشَّيْءُ
 فِي عَيْنِ فَلَانٍ - کوئی چیز کسی کی نظر
 میں قلیل دکھانا۔ أَقَلَّ الشَّيْءُ - کم
 کرتا۔ النَّجْلُ بَقِيَّةُ جِز لَانَا -
 مال کم ہونا۔ فقیر ہونا۔ الشَّيْءُ - بلند
 کرنا۔ أَقَلَّنَا التَّوَعْدَةَ - کسی کو
 لرزہ لاحق ہونا۔ قَالَ لَهُ الْعَطَاءُ -
 کسی کو کم عطا کرنا۔
 تَقَالَ الشَّيْءُ - کسی کو کم سمجھنا۔ تَقَالَتْ
 الشَّمْسُ - آفتاب کا بلند ہونا۔
 تَقَلَّلَ الشَّيْءُ - کسی چیز کو کم دیکھنا۔
 اسْتَقَلَّ الشَّيْءُ - کسی چیز کو اٹھانا یا بلند
 کرنا۔ کم دیکھنا یا سمجھنا۔ الطَّائِرُ
 فِي طَيْرَانِهِ - پرندہ کا اونچی اڑان
 اڑنا۔ الْقَوْمُ كُوج كَرْنَا -
 اسْتَقَلَّتْهُ التَّوَعْدَةُ - لرزہ میں
 مبتلا کرنا۔ اسْتَقَلَّ بِرَأْيِهِ - اپنی
 رائے انفرادی پر جم جانا۔ بِكَذَا
 کسی چیز کو لے کر علیحدہ ہونا اور اس میں
 کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ فَلَانٌ
 غَضَبًا - فرط غضب کی وجہ سے
 جگر سے اچھل پڑنا یا جلے جانا۔
 بِالْأَمْرِ - کسی امر کی طاقت رکھنا۔

السَّحَابُ - ابر کا بلند ہونا۔
 الْقُلْ - چھوٹی دیوار۔ لرزہ۔
 الْقُلْ وَالْقُلْ قِيلَ - مِنَ الشَّيْءِ -
 کسی چیز کا کم از کم حصہ۔ رَجُلٌ
 قُلٌّ - تنہا شخص جس کا کوئی نہ ہو۔ هُوَ
 قُلٌّ ابْنُ قُلٍّ - وہ بھی غیر معروف ہے
 اور اس کا باپ بھی غیر معروف ہے۔
 قُلٌّ رَجُلٌ وَأَقْلٌ رَجُلٌ يَقُولُ
 ذَلِكَ إِلَّا زَيْدٌ - یہ بات زید کے
 علاوہ کوئی اور نہیں کہتا۔
 الْقَلَّةُ - تنگ دستی یا بیماری سے نجات
 پانا۔
 الْقَلَّةُ سَبَّ سَے اوپر کا حصہ۔ سر کا یا
 پہاڑ کا یا کسی بھی چیز کا لوگوں کی ایک
 جماعت۔ بڑا مٹکا۔ چھوٹا کوزہ۔
 قَلَّةُ السَّيْفِ - تلوار کے قبضہ پر
 چاندی یا لوہے کی کوئی زینت دینے
 والی چیز۔ ج۔ قُلٌّ وَقِلَالٌ -
 قِلَالَةُ الْجَبَلِ - پہاڑ کی چوٹی۔
 الْقَلَّةُ - کمی مرض یا تنگ دستی سے نجات
 لرزہ۔ ج۔ قِلٌّ - طویل الْقِلَّةُ
 دراز قد کہا جاتا ہے۔ أَخَذَهُ
 بِقَلْبَتِهِ وَبِقَلْبَتَيْهِ دِيَا قَلِيلًا
 دِيْقَلِيلًا - اس نے سب کچھ لے
 لیا۔ رَحَلُوا بِقَلْبَتَيْهِمْ - وہ اپنے
 سب سامان کے ساتھ کوچ کر گئے
 اور پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔ أَكَلَ الْعَبْتُ
 بِقَلْبَتَيْهِ - گدہ کو بڑیوں اور کھال
 سمیت کھالیا۔
 الْقَلْبِيَّةُ - گرجا جیسی عمارت۔
 الْقَلِيلُ - کم، لاغر۔ ج۔ قَلِيلُونَ وَأَقِلَاءُ
 وَقُلٌّ وَقُلُلُونَ مَوْنٌ قَلِيلَةٌ -
 ج۔ قَلِيلَاتٌ وَقَلَائِلٌ - قَلِيلُ
 الْخَيْرِ - خیر نہ کرنے والا۔ قَلِيلُ
 مِنَ الرِّجَالِ يَقُولُ ذَلِكَ - یہ

کوئی بھی نہیں کہتا۔ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ
 قَلْبَتَهُ دَلَالَةٌ كَثِيرَةٌ - میں نے اس
 سے کچھ نہیں لیا۔ قَلِيلٌ پرتا، تانیت
 صرف بحالت نفی داخل ہوتی ہے۔
 الْقَلَالُ وَالْقُلَالُ - کم۔ ج۔ قُلٌّ -
 الْقَلَالُ - دوستوں جو انگوڑی کی سیلوں کو
 زمین سے اٹھانے کے لیے گاڑے
 جائیں۔ الْقُلُّ مِنَ النَّاسِ مَخْلُفٌ
 متفرق لوگ۔
 الْأَقْلُ - بہت کم۔ وَالْمُقِلُّ - فقیر قدرے
 مال والا۔
 الْقُلِيُّ - کوتاہ قد لوطی۔ بَطْنِي لُطِي - قَوْمُ
 آقَلَّةٍ - کمبختی قوم۔
 الْمُقْتَلُ - مفعول۔ مِنَ السَّيْفِ - وہ
 تلوار جس کے موٹے کے کنارہ پر چاندی
 یا لوہے کا ٹکڑا لگا ہو۔
 الْمُسْتَقِلُّ - فاعل۔ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ -
 اپنے کام کا ذمہ دار منتظم۔ بااختیار۔
 قَلَبَ قَلْبًا رَضَ، الشَّيْءُ - رُخ یا حالت
 کو پلٹنا۔ اوپر کے حصہ کو نیچے کرنا۔
 اندر کے حصہ کو باہر کر دینا۔ الْقَوْمُ
 وَاپْسَ كَرْنَا - پھیرنا۔ قَلَبَ الْمُعْلِيَّةُ
 الصَّبِيَّانَ - معلم کا بچوں کو گھرواپس
 بھیجنا۔ الْمَجْنُونُ عَيْنَهُ - غصہ
 ہونا۔ قَلَبَتِ الْبُسْرَةُ - کچی کھجور کا
 سُرخ ہونا۔ قَلَبَ الْأَرْضَ لِلزُّوَارِعَةِ
 بل کے پھالے سے زمین کو الٹ پلٹ
 کرنا۔ محاورہ ہے کہ قَلَبَ الْأَمْرَ
 ظَهَرَ الْبَطْنُ - کسی معاملہ کو اچھی طرح
 جانچنا۔
 قَلَبَ قَلْبًا رَضَ، دَل كُ لَاحِق كَرْنَا -
 قَلَبَ التَّخْلَةَ - مغز نکالنا۔ اِنَّهُ
 فَلَانًا اَيْهِ - موت دینا۔
 قَلَبَ قَلْبًا دَسَ، اَلْطَّ بُوْنُ بُوْنُ وَالَا
 ہونا۔ صفت أَقْلَبَ - قَلْبَتُهُ الشَّقَّةُ

ہونٹ کا الٹ جانا۔ مونٹ کی صفت
 قَلْبًا ہے۔
 قَلْبِ الْبَعِيرِ۔ اونٹ کو بیماری قلب
 لاحق ہونا۔
 قَلْبَهُ۔ پلٹنا یا الٹنا سختی سے یا بار بار۔
 قَلْبَ كَفِيهِ۔ نادم ہونا۔ قَلْبَ
 الْأُمُورِ۔ معاملات کے انجام و عواقب
 کو دیکھنا۔
 أَقْلَبَ الشَّيْءُ رُخَّ تَبْدِيلِ كَرْنَا۔
 أَقْلَبَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ خدا کا کسی کو موت
 بھیجنا۔ أَقْلَبَ الْعَيْنُ۔ انکڑ کا
 ادیری حصہ خشک ہونا۔ الْخُبْرُ
 رُوْنِ کا تو بے پُر اُٹے جلنے کے قابل
 ہونا۔ الْقَوْمُ۔ قوم کے اونٹوں کو دل
 کا مرض لاحق ہونا۔
 تَقَلَّبَ رُخَّ کو تَبْدِيلِ كَرَلْنَا۔ مڑ جانا۔
 عَلَى فِرَاشِهِ۔ بستر پر کروٹیں بدلتا۔
 فِي الْأُمُورِ۔ معاملات میں تصرف
 کرنا اور ایک امر سے دوسرے کی
 طرف منتقل ہونا۔ محاورہ ہے اَنَا
 أَتَقَلَّبُ فِي نَعْمَاتِهِ۔ میں ہر
 حالت میں اس کی نعمتوں سے بہرہ
 اندوز ہوں۔
 اِنْقَلَبَ۔ الٹ جانا۔ پلٹنا۔ مڑنا۔ سرنگوں
 ہونا۔
 الْقَلْبُ۔ مصدر۔ قلب۔ دل۔ عقل، جی۔
 قَلْبُ الْجَنِّيشِ۔ لشکر کا وسط۔
 قَلْبُ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہر چیز کا مغز اور
 خلاصہ۔ بولا جاتا ہے۔ جِئْتُكَ
 بِهَذَا الْأَمْرِ قَلْبًا۔ میں تمہارے
 پاس صرف اسی امر کے لیے آیا۔ قَلْبُ
 الْأَقْرَبِ۔ چاند کی منزلوں میں سے
 ایک منزل۔ جہ۔ قُلُوبٌ۔ أَفْعَالُ
 الْقُلُوبِ ظَنٌّ وَحَسِبَ دُغْيَرِہ
 اصطلاح نحو کے افعال۔ رَجُلٌ

قَلْبٌ۔ خالص نسب والا شخص۔ اس
 میں مذکر مونٹ و جمع سب مساوی
 ہیں۔ البتہ کبھی اِمْرَأَةً قَلْبَةً بھی
 بولتے ہیں۔
 الْقَلْبُ وَالْقَلْبُ وَالْقَلْبُ۔ مِنْ
 الشَّجَرِ۔ درخت کے تنہ کا اندرونی
 نرم حصہ۔ جہ۔ أَقْلَابٌ وَقُلُوبٌ وَ
 قَلْبَةٌ۔
 الْقَلْبُ۔ عورت کے گنگن۔ سفید سانپ۔
 الْقَلْبَةُ۔ سُرخ۔
 الْقَلْبَةُ۔ وہ مرض جس کی وجہ سے بیمار
 بستر پر کروٹیں بدلتا رہے۔
 الْقَلَابُ۔ دل کا مرض۔
 الْقَالِبُ۔ فاعل۔ سُرخ شدہ کھجور۔ شَاةٌ
 قَالِبٌ لَوْنٌ۔ وہ بکری جس کا رنگ
 اس کی مال کے برخلاف ہو۔ و
 الْقَالِبُ۔ سانچہ کسی دھات وغیرہ
 کو ڈھالنے کا ڈھانچہ۔ جو نے کوٹھیک
 کرنے کے لیے سانچہ۔ قالب۔ جہ
 قَوَالِبُ۔
 الْقَلْبُ۔ پلٹنے والا۔ بہت اُلٹ پلٹ
 ہونے والا۔ حَوْلُ قَلْبٍ يَأْخُذُ
 قَلْبِي۔ جلد باز۔ الٹ پلٹ کرنے
 میں ماہر۔
 الْقُلُوبُ۔ بہت اُلٹ پلٹ ہونے والا۔
 وَالْقَلَابُ۔ بھیڑیا۔
 الْقَلِيْبُ۔ کنواں۔ پرانا کنواں (مذکر ہے
 اور نسبی مونٹ) جہ۔ قَلْبٌ وَقَلْبٌ
 وَأَقْلِبَةٌ۔
 الْقُلُوبُ وَالْقُلُوبُ دَالِقَالِيْبُ۔
 شیر۔ بھیڑیا۔
 اَلْمَقْلَبُ۔ مصدر۔ مقام انقلاب۔ مرجع
 كُلِّ أَمْرٍ يَصِيرُ إِلَى مُنْقَلَبِهِ
 ہر آدمی اپنے ٹھکانے پر پہنچتا ہے۔
 اَلْمَقْلُوبَةُ۔ مفعول۔ کان۔

قَلْبَتْ قَلْبًا دس، ہلاک ہونا۔
 أَقْلَتْ۔ ہلاک کرنا۔ أَقْلَتِ الْمَرْأَةُ وَ
 كُلُّ أَنْثَى۔ اولاد زندہ نہ رہنا۔ ایک
 بچہ کے بعد پھر بچہ نہ ہونا۔ صفت
 مَقْلَاتٌ اور اسم قَلْتُ ہے۔
 أَقْلَتَهُ قَلْبَتْ۔ اس کو خراب کیا۔
 اور وہ خراب ہو گیا۔
 اَلْقَلْتُ۔ چٹان یا آنکھ وغیرہ کا گرہا۔ جہ
 قَلَاتٌ۔ قُلْتُ الْخَاصِرَةَ۔ کوکھ کا
 گرہا۔ قُلْتُ تَرَفُوتِي۔ سینہ کی
 ہنسیوں کے ہر دو گرہے۔ ہر عضو کی
 گہری جگہ یا گرہے کو قُلْتُ کہتے ہیں
 رَجُلٌ قَلْتُ وَقَلْتُ۔ کم گوشت
 آدمی۔
 اَلْقَلْنَةُ۔ دونوں مونچھوں کے درمیان میں
 ناک کے نیچے کا گرہا۔ نَشَاةٌ قَلْنَةُ
 جس بکری کا دودھ میٹھا نہ ہو۔ اس کو
 کہا جاتا ہے۔
 اَلْمَقْلَنَةُ۔ جائے ہلاکت۔ خطرناک مقام۔
 اَلْمَقْلَاتُ۔ وہ مونٹ جس کا بچہ زندہ نہ
 رہتا ہو۔ جو ایک مرتبہ جننے کے بعد
 پھر حاملہ نہ ہو۔ جہ۔ مَقَالِيْتُ۔
 قَلِحٌ قَلَحًا دس، دانوں پر زرد میل
 چڑھنا۔ قَلِحَتْ أَسْنَانُهُ۔ دانوں
 پر زرد میل چڑھا ہوا ہونا۔ صفت
 قَلِحٌ وَأَقْلَحٌ۔ مونٹ قَلِحَةٌ وَ
 قَلَحَاءُ۔ جہ۔ قُلِحٌ۔
 قَلَحَةٌ۔ دانوں کو زرد میل سے صاف کرنا
 تَقْلَحٌ۔ میلے کپڑوں والا ہونا۔ تَقْلَحُ
 الْبِلَادُ۔ قحط کے زمانہ میں شہروں
 میں کمانے کے لیے جانا۔
 اَلْقَلْحُ۔ بوڑھا گدھا۔ اَلْقَلْحُ وَالْقَلَاخُ۔
 زرد میل جو دانوں پر چڑھ جاتا ہے۔
 اَلْقَلْحُ۔ میلا کپڑا۔
 اَلْأَقْلَحُ۔ گبر یا۔ گوبر کا کپڑا۔ رَجُلٌ



اَقْلَحَ - تجربہ کار آدمی جس پر واقعہ
 بیتا ہو۔
 اَلْمَعْلُومُ - تجربہ کار ماہر۔
 اَقْلَحَمَ الرَّجُلُ - بہت بوڑھا ہو جانا
 اَلْقِلْحَمُ اپنے آپ کو بڑھا جانے والا
 گھمنڈی - بوڑھا۔
 شَيْخٌ قَلْبًا - بہت بوڑھا کھوسٹ
 قَلَحَ قَلْبًا وَقَلْبًا (ف) الشجرۃ -
 درخت کو اکھاڑنا۔
 قَلَحَ قَلْبًا وَقَلْبًا وَقَلْبًا -
 (ف) اَلْبَعِيرُ - اونٹ کا بدلنا۔
 قَلَحَهُ بِالسُّوْطِ - کورے سے مارنا
 قَلَحَ اَلْبَتُّ - نباتات کا تہ مضبوط
 وسخت ہونا۔
 اَلْقَلْحُ - مصدر - پولا بانس - کھوکھلا
 نزل - بوڑھا لگنا - دَا قَلْحًا -
 بڑی کھوپری والا۔
 قَلَدَ قَلَدًا (دس) اَلْحَبْلُ - رسی بٹنا۔
 اَلْحَدِيدُ - لوہے کو پتلا کرنا اور
 کسی چیز پر موڑنا یا موڑ کر گھمانا۔
 اَلرَّجُلُ السَّيْفُ - تلوار کو گھلے
 میں ڈالنا۔ اَلْمَاءُ فِي الْحَوْضِ اَوْ
 الشَّرَابِ فِي الْبَطْنِ - حوض میں پانی
 یا پیٹ میں مشروب جمع کرنا۔ اَلزَّرْعُ
 سیراب کرنا۔ اَلشَّيْءُ مَوْطُنًا - اَلْحَقِي
 قَلَانًا - ہر روز بخار چڑھنا۔
 قَلَدَهُ السَّيْفُ - گردن میں تلوار کا
 لگانا۔ قَلَدَهُ اَلْقَلَادَةَ - کسی کے
 گلے میں ہار ڈالنا۔ قَلَدَهُ الْعَمَلُ
 کسی کے ذمہ کام مقرر کرنا۔ قَلَدَهُ
 اَلدِّينُ - قرض سپرد کرنا۔ قَلَدَ الْبَعِيرُ
 اونٹ کے گلے میں رسی باندھنا جس سے
 اس کو کھینچا جائے۔ قَلَدْنَا الْقَصْدَ
 فِي سَبْكِهِ كَذَا - کسی کو کسی شے کا
 قاضی مقرر کرنا۔

قَلَدَ حَبْنَهُ (دھ آزار کر دیا گیا)
 قَلَدَ كَذَا فِي كَذَا - کسی معاملے میں ہمارا
 غور و فکر کسی کی پیروی کرنا۔
 اَقْلَدَ الْبَحْرُ عَلَيْهِمْ - سمندر کا لوگوں کو
 غرق کرنا۔ قَلَدَتِ الْمَرْأَةُ الْقَلَادَةَ
 عورت کا ہار پہننا۔ تَقَلَّدَ الْاَهْلُ
 کسی معاملہ کا ذمہ دار بننا۔ اپنے اوپر
 لازم کرنا۔ برداشت کرنا۔
 تلوار کو حائل کرنا۔
 تَقَالَدَ الْقَوْمُ الْمَاءَ - قوم کا پانی کو
 باری باری لینا۔
 اَقْلَدَ الْمَاءَ - پانی کو حیدر سے لینا
 اَقْلَدَ الدَّيْسُ - زاننا - نیند کا طاری
 وغالب ہونا۔
 اَلْقَلْدُ - مصدر - ٹاپا ہوا لنگن سَوَّ اَقْلَدُ
 ایک رسی پر لپیٹی ہوئی دوسری رسی۔
 جہ اَقْلَدُ دَوْحُوْدُ -
 اَلْقَلْدُ - بخار کی باری - چوتھا بخار کا
 مریض جس دن اُس کی باری ہو۔ پانی
 کا حصہ یا باری - جماعت - آسمان کی
 سیرابی - مہفتہ وار - محاورہ سے -
 سَقَتْنَا السَّمَاءُ قَلْدًا فِي كُلِّ
 اِسْتَوْعِ ریم کو آسمان نے ہر مہفتہ سیراب
 کیا۔ سیرابی کا دن یا رسی بڑے
 پیالہ کے مشابہ برتن - جہ
 میں نے
 اپنے معاملہ کا اختیار اُس کو سپرد کر دیا۔
 اَلْقَلْدَةُ - گھٹی کا لچھٹ - کھجور۔
 اَلْقَلْدَةُ - مونچھوں کے درمیان میں
 ناک کے بال نکل نیچے کا گڑھا۔
 اَلْقَلَادُ وَالْاَقْلِيدُ - تانبے یا تیل
 کا تار جس کو ہمارے استعمال کیا جائے
 یا اُس سے بالی یا انگھوٹھی کا حلقہ بنایا
 جائے۔
 اَلْقَلَادَةُ - ہار - نیکل جس جہ قَلَادَةُ

وَقَلَادَةُ - چھتاروں کا ہجکا جو توس
 کے نام سے مشہور ہیں۔ اَلْقَلَادَةُ
 وہ اشعار جو ہمیشہ یاد کئے گئے ہوں اور
 ہوجہ نفاست فراموش نہ ہوں۔
 اَلْقَلُوْدُ - بہت پانی والا کنواں
 اَلْقَبِيْدُ وَالْمَقْلُوْدُ - ٹاپا ہوا۔
 اَلْقَلِيْدُ وَالْمَقْلَادُ - سبز -
 اَلتَّقْلِيْدُ - مصدر - جہ تَقَالِيْدُ
 و تَقْلِيْدَاتُ - اَلتَّقَالِيْدُ -
 نساری کے نزدیک وہ عقائد یا امور
 عبادت جو سلف سے خلف تک پہنچے
 اور کسی کو منجانب اللہ تملائے گئے
 ہوں، مگر اُن کو ضبط تحریر یا نقل میں نہیں
 لایا گیا۔ سلطان یا امیر کا وہ حکم جو
 ماتحت کے حاکم کو دیا گیا اور جس میں
 اُس کو تقلید حکم کا صراحتہ پابند کیا گیا
 ہو وہ بھی تقلید کہلاتا ہے۔
 اَلْاَقْلِيْدُ جہ اَقْلِيْدُ اَلْمُسْتَدِمُ
 مَقَالِدُ - کبھی - چابی - حَقِيقَةُ
 مَقَالُ كَا اَوْ مَقَالِيْدُهُ - معاملات
 کا کسی پر تنگ ہونا۔ اَلْفَقِي اِلَيْهِ
 مَقَالِيْدُ الْاُمُوْر - معاملات کا
 انتظام کسی کے سپرد کرنا۔ اَلْمَقْلَدُ
 برتن - دانہ کھلاتے کا تو برہ، ہیما نہ
 ٹیڑھے سروا لا عصا۔
 اَلْمَقْلَدُ - مفعول - سردار قوم - وہ گھوڑا
 جو سابق ہونے کی وجہ سے بطور علامت
 کوئی چیز پہنایا گیا ہو۔ ہار پہننے کی
 جگہ - تلوار کو حائل کرنے کی جگہ دونوں
 مونڈھوں کے درمیان مَقْلَدَاتُ
 السَّيْفِ - وہ اشعار جو زمانہ و از گزر
 جانے کے باوجود باقی رہیں اور نفاست
 کی وجہ سے ان کو محفوظ کیا جائے۔
 قَلْدَةُ قَلْدًا (ن من) اَلْمَرْأَةُ قَلْدًا
 اَلْاَرْضُ بِحَصَاہُ - چھڑی سے زمیں

ق

کر دینا پس ہمہ ادب قیہ بہ پھینکا
یا قے کرنا۔ الرجل کسی نوعیت کا
مشروب پینا چست و خوش ہونا۔ کوفہ
لنگڑا ہونا۔ قلذہ الماء۔ ایک
ایک گھونٹ پلانا۔ وقلذوا قلذوا
الجزاد۔ بڑی کا دم کو زمین میں گڑانا
تقلز۔ چست و خوش ہونا۔ اولغل۔
بھاڑی بکرے کا دوڑنا۔
اقتلزالکائن۔ پیالہ سے ایک ایک
گھونٹ پینا۔

الذلزمین الرجال۔ ہلکا آدمی، کمزور
القلز والقلز۔ وہ تانبا جس پر
لوہے کا اثر نہ ہو سکے مضبوط آدمی
مؤثقل قلزہ وقلزہ۔
قلزم وقلزم۔ اشیاء کی چیز کو
نگنا۔ تقلزم الرجل۔ نبل سے
مر جانا۔

القلزم۔ کینہ۔
القلزم۔ ایک شہر جو مصر اور مکہ کے درمیان
ہے۔ بحر قسطنطنیہ کی طرف منسوب
ہے کیونکہ اس کے کنارہ پر ہے۔
القلزمہ۔ مصدر کمینگی، شور و

شہر۔
قلس قلسا وقلسا تارمن الرجل۔
پیٹ سے منہ بھر یا کم کھانا وغیرہ منہ تک
آنا۔ اگر غالب آجائے اور ضبط نہ
ہو سکے تو اس کو قے کہا جاتا ہے
زیادہ بنیز پینا۔ قفسہ طبیعت
متلانا۔ انکاش یا لشراب باب
ہونے کی وجہ سے چھلکا۔ ایدنا
برتن کا ہٹنا، سمندر کا جھپکنا، خون
کا ہٹنا۔ التحل الحسل سکھی
کا شہد اکلنا۔ السحابہ النادی
بادل کا پھوڑا برسانا۔ الرجل بناچ
دکھانا گاتے وقت عمدہ گانا گانا۔

قلس۔ دف بجانا اور گانا بجدہ کرنا القوم
قوم کا دف بجا کر اور ترانہ گا کر اور کھیل
کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کرنا۔
لہ کسی کے سامنے تعظیماً بیست ہونا
اور سینہ پر ہاتھ رکھنا۔ الرجل۔
ٹوپی پہنانا۔

القلس۔ پیٹ سے منہ تک جو کھانا یا مشروب
بدھن کی وجہ سے آجائے۔ قے۔
قلس البعر۔ ابر۔

القلس۔ وہ شخص جس کے منہ تک کھانا
وغیرہ پیٹ سے آجائے
القلس۔ اسم مبالغہ۔ کلاہ ساز۔
نجر قلاسی۔ جھاگ پھینکنے والا
سمندر۔ زخار۔

القلیس۔ شہر کی مکھی۔ شہد۔
قلس الرجل۔ ٹوپی پہنانا۔
تقلس تقلسیا۔ ٹوپی اوڑھنا۔
الانقلیس والانقلیس۔ بام

مچلی۔
القلاش۔ سکرٹا ہوا۔ چھوٹا سا۔
القلاش۔ چھوٹا بن سکرٹا ہوا۔
القلاش والقلش۔ جلد ساز۔

(کلمہ خیل ہے)
قلص قلو صا۔ (من) الرجل۔ کودنا۔
القوم جہج ہو کر چلنا۔ القوم علی الار
قوم کا ہلکا ہونا اور چلنے کا وقت قریب
ہونا۔ الماء پانی کا چڑھنا ختم ہونا
اور غائب ہونا۔ البصر کنویں کا اوپر
تک آجانا۔ اطل عن کذا۔ سایہ
کا سمٹنا۔ صفت قاصص۔ الثوب
بعد الغسل۔ کپڑے کا دھو کے کے
بعد سکرٹا سمٹنا۔ الخلاء۔ حوان
ہونا الشفة۔ ہونٹ کا اوپر کی جانب
سکرٹنا۔

قلصت قلو صا من وقلصت

قلصا من نفسه۔ جی متلانا۔
قلص قلیصه ققلس هو۔ اس نے
قمیص کو سکرٹا تو وہ سکرٹ گئی سمٹنا
سمٹنا۔ سکرٹنا۔ سکرٹنا۔ قلصت
الدراع۔ زرہ کا سمٹنا اور گھٹ جانا
الانقاص۔ بیکھا۔ ناقہ کا سوار
کو تیزی سے لے جانا۔ اور اپنی روانی
کو جاری رکھنا۔ القوم، اونٹنیوں پر
سوار ہونا۔

القلص البعیر۔ اونٹ کی تھوڑی سی
کوٹان ظاہر ہونا الانقاص۔ گرمی میں
ناقہ کا فریہ ہونا۔ ناقہ کا فریہ ہونا۔
ناقہ کا دودھ خشک اور ختم ہونا۔

تقلص۔ سمٹنا۔ سکرٹنا۔ ایک دوسرے
کے قریب ہونا طبعی کے نزدیک
تمدد کی ضد و عکس۔

القلصت۔ پانی کا کنویں میں بلند ہونا۔
ج قلاس وقلصا ت بول جاتا ہے
ما وجدت فی البئر الا قلصت
میں الماء۔ میں نے کنویں میں صرف
تھوڑا سا پانی پایا۔

القلوص من الابل۔ لمبی ٹانگوں والی
اونٹنی جو ان اونٹنی چلنے والی اونٹنی
وہ اونٹنی جس پر پیسے پہل سواری کی
جائے۔ جہ قلاص وقلاص
قلص وقلصان القلوص۔ جاری
پرندہ کا چوڑا۔ حوان عورت۔ وہ سینے
والی نہر میں غلاطت و گندگی پھینکی
جاتی ہو۔

القلیس کثیر۔ من المیاء۔ بلند پانی جو
بعد ختم ہو جائے۔
القلاص من المیاء۔ بلند پانی جو بعد
ختم ہو جائے۔

المقلاص۔ اونٹنی کو دوہنے والا۔
من الثوب۔ وہ ناقہ جو موسم گرما میں

فرہ ہو جائے۔ قس۔ مقلع۔
لمبی مانگوں والا گھوڑا۔
الْقَلْبِيُّ وَالْقَيْدِيُّ۔ سرکش خبیث
آدمی۔ القلاط۔ انتہائی چھوٹا آدمی
یا گتیا بلی۔

الْقَلْبِيُّ۔ فوطوں کا بھولنا۔
الْقَيْدِيُّ وَالْقَيْدِيُّ۔ وہ شخص جس
کے فوطے بھولے ہوئے ہوں۔
قَلْعَ قَلْعًا (ف) وَقَلْعَ وَقَلْعَ
الشیء۔ جڑ سے اکھانا۔ قَلْعَ اُولٰی
فُلَانًا۔ حاکم کا کسی کو معزول کرنا۔
اِقْتَلَعَ الشیء۔ چھین لینا۔
قَلْعَ قَلْعًا وَقَلْعَةً (س) الرّاکبُ
زین پر سوار کا قائم نہ رہنا۔ الرّجلُ
کنڈہ بن ہونے کی وجہ سے کلام کو
نہ سمجھنا۔

المُصَارِعُ کشتی کے وقت پہلوان کا
قَدَمُ نہ جھپنا۔
قَلْعَ قَلْعًا الرَّجُلُ۔ آدمی کا حملہ یا
سواری کے وقت ثابت نہ رہنا۔
اَقْلَعَ عَنْ كَذَا۔ باز رہنا۔ چھوڑنا
الْمَلَأَ السَّفِينَةَ۔ طارح کا بادبان
اُٹھانا۔ اَصْحَابُ السَّفِينَةِ۔
کشتی والوں کا چلنا۔ الشیءُ رَدَسَ ہوتا
الأمیرُ بملو بنانا۔ الہمی عن فلان
کسی کا بخار اُترنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے یا سماءُ اَقْلِعِي۔ (اے آسمان
بارش سے رُک جا)۔

قَالَ عَامًا مَقَالَةً۔ ایک دوسرے کو
اکھانا۔
تَقْلَعُ وَالْقَلْعُ وَالْقَلْعُ۔ اکھرنا
تَقْلَعُ فِي مَشْبَہ۔ اسی طرح چلنا
کہ آگے کو جھکتا ہوا معلوم ہو۔
الْقَلْعُ۔ مصدر۔ مہار کی چھوٹی کلہاڑی
چرواہے کا ترشہ دان جہ آقْلَعُ

وَقْلُوعٌ۔ قَلْعُ الْحَصَى۔ بخار کے
چھوڑنے کا دن۔ محاورہ ہے تَوَكَّلْتُ
فِي قَلْعٍ وَقَلْعٍ وَقَلْعٍ مِنْ حَمَاہِ
میں نے اس کو اس وقت چھوڑا جب
بخار اُترا ہوا تھا۔
الْقَلْعُ۔ ایک کان کا نام جس کی طرف منسوب
کرتے ہوئے راگ کو قلعی کہا جاتا
ہے۔ رَصَامٌ قَلْعِيٌّ وَقَلْعِيٌّ
عمدہ راگ قلعی۔

الْقَلْعُ کشتی کا بادبان جہ خُلُوعٌ و
قِلَاعٌ۔
الْقَلْعُ بخار اُترنے کا دن۔ مصدری۔ وہ
شخص جو گھوڑے پر چم نہ سکے۔
الْقَلْعُ۔ چلنے میں قوی۔
الْقَلْعُ۔ مصدر۔ خون خارش کی وجہ پر
اکھڑے ہوئے جھپکے یا کھال۔ چُجَان
کے نیچے کا پتھر۔ مِنَ الْهَمَى۔ بخار کے
ختم ہونے کا دن۔

الْقَلْعُ۔ وہ شخص جو جنگ میں یا گھوڑے
کی زین پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔ وہ
کنڈہ بن جو بات کو سمجھ نہ سکے خارش
کھرنڈ والا۔ شَيْءٌ قَلْعٌ۔ وہ
بزرگ جو اُسٹے وقت جھکتا ہو معلوم
ہو۔

الْقَلْعَةُ۔ قلعہ گردھی۔ فورٹ۔ جہ
قِلَاعٌ و خُلُوعٌ
الْقَلْعَةُ۔ کھجور کا پودا جو کھجور کے
درخت کی جڑ سے اکھاڑا جائے۔

جہ واسے کا ترشہ دان۔
الْقَلْعَةُ۔ قلع کا اسم نوع۔ ایک پہاڑ
کسی کے لمبائی میں پیرے ہوئے
دونوں ٹکڑے۔ قَلْعَتَيْنِ کہلاتے ہیں
جہ قَلْعٌ۔

الْقَلْعَةُ۔ خارش جھلکوں والا۔ وہ
شخص جو حملہ کے وقت ثابت نہ رہ سکے

قائم نہ رہنے والا مال۔ عاریتی مال۔
وہ چیز جو درخت سے غلطہ کی جائے
قُلْعَةً (وہ کوچ کر گیا ہے)
مَنْزِلًا مَنْزِلًا قُلْعَةً وَقُلْعَةً
وَقُلْعَةً (یہ مکان ہمارا مملوکہ نہیں
ہے) هَذَا الْمَنْزِلُ مَنْزِلُ قُلْعَةٍ
(یہ ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھنے والے کو
اپنے سے معزز آدمی کے آنے کے
وقت یا بار بار ضرورت کے لئے غلطہ

ہونا پڑتا ہے
الْقَلْعَةُ۔ بڑا ٹیلہ۔ قلعہ، پہاڑ جیسا
بادل جہ قَلْعٌ۔ وہ چُجَان جو پہاڑ سے علیحدہ
ہو اور اس پر چڑھنا مشکل ہو۔ جہ،
قِلَاعٌ و قَلْعٌ۔

الْقَلْعَةُ۔ خارش جھلکوں والا۔
الْقِلَاعُ۔ وہ مٹی جو پانی خشک ہونے
کے بعد بھٹ جائے۔ زبان اور منہ
کے چھالنے۔ مِنْ آتَانَا ایک چھالے کو
قِلَاعَةً کہتے ہیں۔

الْقِلَاعُ۔ وہ اٹھی ہوئی زین جو کھنبی کے
ٹکٹے کے وقت اُبھرائے، جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کھنبی ہے
قِلَاعُ الْأُذُنَيْنِ۔ کان کی جڑ کی
بھٹن، جس سے پیپ اور زرد پانی
کا ترشہ ہوتا ہے۔

الْقِلَاعَةُ۔ وہ پتھر یا ڈھیلا جو چھینکے
کے لئے اکھاڑا جائے وَفِي الْقِلَاعَةِ
(اُس کو مسکت دلیل سے خاموش کر دیا گیا)
الْقِلَاعَةُ۔ کشتی کا بادبان۔

الْقِلَاعُ۔ وہ شخص جو حملہ کے وقت یا
گھوڑے کی زین پر نہ جم سکے۔ جھوٹا
ڈاڈھ اکھاڑنے والا۔ حکام کے پاس
لوگوں کی فیست کرنے والا۔ سپاہی
کمانڈر۔ کفن چور۔

الْقِلُوعُ۔ بڑی ناقہ۔ وہ کمان جو کھینچتے



وقت نکل کر اٹل جائے۔ ج۔ قُلْعٌ
 اِقْلَاعُ الْحُمَى وَمُقْلَعُهَا۔ سجا کا اڑنا
 اَلْمُقْلَعُ۔ پتھر اکھاڑنے کی جگہ۔ ج۔
 مَقَالِعُ۔
 اَلْمُقْلَعُ۔ پتھر پھینکنے کا گوبھیا۔ فلاخ
 ج۔ مَقَالِيعُ۔
 تَقْلَعْتُ فِي مَشِيئِهِ۔ اس طرح چلنا
 جیسے کیڑے سے نکلتا ہے۔
 اِقْلَعْتُ الشَّعْرُ۔ بالوں کا بہت ہی
 گھنگریالے ہونا۔ فَلَانٌ۔ انہی ہی
 رائے سے ملک میں جانا۔
 اِقْلَعْتُ الشَّعْرُ۔ بالوں کا گھنگریالے
 اور سخت ہونا۔
 اَلْمُقْلَعُ۔ فاعل۔ ڈر کر بھاگنے والا
 سخت گھنگریالے بالوں والا سر جس
 کے بال لیے نہ ہوتے ہوں۔
 اِقْلَعْتُ الشَّيْءُ سَمْنًا، سَكْرًا۔
 اَنَامِلُ فَلَانٍ۔ مجرہ پالے یا جاڑے
 سے انگلیوں کا سکر جانا۔
 اَلْقُلْعَةُ۔ بالوں کا انتہائی گھنگریالا
 پن۔
 قَلَفٌ قَلْفًا (ض) الشَّجَرَةَ۔ درخت
 کی چال اُتارنا۔ الشَّيْءَ يَلْتَنُ۔
 اَلْتَنَ۔ دَا قَلَفْتُ الظُّفْرَ۔
 ناخن کو کاٹنا اور جڑ سے اکھاڑنا۔
 قَلَفْتُ قَلْفًا (ن) اَلْقُلْفَةَ۔ حشفہ
 کے اوپر کی کھال کاٹنا۔ ختنہ کرنا۔
 قَلَفْتُ قَلْفًا وَقُلْفَةً (ض) الدَّنَّ
 مٹے کے سر کی مٹی علیحدہ کرنا۔ و
 قَلَفْتُ السَّيْفِيَّةَ کسی کے تختوں
 گور سے باندھنا۔ اور مدیاں
 میں تار کول پھیرنا۔ اسم قِلَاحَةٌ
 ہے۔
 قَلَفْتُ الْجَوْدَرَّ۔ اونٹ کے اعضاء
 علیحدہ علیحدہ کرنا۔

قَلَفْتُ قَلْفًا (ن) السَّبِيَّ۔ بچے کا
 غیر مختون ہونا یا اس کے حشفہ کی
 کھال کا بڑا ہونا۔ صفت اقلع
 تَقْلَفُ الْفَسْرُ عَنْ الشَّجَرَةِ۔ چپکے
 کا درخت سے جدا ہونا۔ اِنْقَلَفْتُ
 السَّيْرَةَ۔ ناف کا پھول جانا۔
 اَلْقُلْفُ۔ درخت کی چال واحد قُلْفَةٌ
 ہے۔ کھردری و سخت جگہ۔
 اَلْقُلْفَةُ۔ جڑ سے اکھاڑا ہوا ناخن۔
 اَلْقُلْفَةُ وَالْقُلْفَةُ۔ عضو تناسل
 کے سرے کی کھال۔ حشفہ کی کھال
 ج۔ قُلْفٌ۔
 اَلْقُلْفَةُ تَارَ مِنَ الشَّيْءِ۔ موٹا بوٹ
 اَلْقُلْفَةُ۔ درخت وغیرہ کی چال
 اَلْقُلْفُ۔ ج۔ قُلْفٌ وَالْقُلْفَةُ
 ج۔ قُلْفِيٌّ وَالْقُلْفُوفُ۔ ج۔
 مَقْلُوقَاتٌ۔ کھجور دھننے کی بڑی
 ٹوکری۔
 اَلْقُلْفَةُ وَالْمَقْلُوفُ۔ وہ مکان جس
 کی مٹی علیحدہ کر دی گئی ہو۔ اَلْقُلْفُ
 خشک۔ میرہ۔ دریائی کھجور جس کا
 چپکا اُترا ہوا ہو۔ واحد قُلْفِيٌّ
 اَلْقُلْفُ۔ غیر مختون جس کے حشفہ
 کی کھال بڑی بوٹوں قُلْفًا۔
 ج۔ قُلْفٌ۔ محاذ ہے کہ ہو
 اَقْلَفُ الْقَلْبُ (وہ غیر کو قبول
 نہیں کرتا) عَامًّا اَقْلَفْتُ غَوْشَالِ
 کا سال۔ عَمِيشُ اَقْلَفُ۔ پُر
 لطف زندگی۔
 اَلْقُلْفُ۔ وہ کھجوریں جن کی گٹھلی
 نکال کر کھجور کے پتوں کی ٹوکری میں
 محفوظ کر دی گئی ہوں۔ قُلْفَحُ
 الطَّعَامُ۔ تمام کھانا کھا لینا۔
 تَقْلَفَحُ عَنْهُ الشَّيْءُ۔ چل جانا
 مٹ جانا۔

اَلْقُلْفَحُ وَالْقُلْفَحُ۔ چپٹی موٹی مٹی لپے
 کر کول لے کے وقت جو ریزے
 علیحدہ ہوں۔
 اَلْقُلْفَحَةُ۔ کھنی زمین پر مٹی کا وہ
 اٹھا ہوا چپکا جس کے نیچے کھنی ہو۔
 اونٹ کی کھال پر جو لیے لیے چپکے کی
 شکل کے داغ اُبھرتے ہیں۔
 قُلْفٌ قُلْفَةً (ض) پریشان دے چین
 ہونا۔ صفت قُلْفٌ وَمُقْلَقٌ ہے
 قُلْفٌ قُلْفًا (ن) الشَّيْءَ حَرَكَةً دِنًا۔ بلانا
 اَقْلَعْتُ۔ لیے قرار پریشان کرنا۔
 اَقْلَعْتُ الشَّيْءَ مِنْ مَكَانِهِ۔ جگہ سے
 حرکت دینا۔ اَلْقَوْمُ السَّيُوفُ۔
 فِي الْعَمَلِ۔ تلوار کو میان سے نکالنے
 کے سپہ سحر حرکت دینا۔ تاکہ نکالے
 وقت دشواری نہ ہو۔
 اَلْقُلْفُ۔ اردو گھٹیاں رکھ دیں
 ہے۔
 قُلْفٌ قُلْفَةً (ض) اَدَا دِنًا۔ قُلْفَةً
 وَقُلْفًا (و) قُلْفًا (و) الشَّيْءَ۔
 حرکت دینا۔ اَلْعَدُنُ مَعَهُ
 علم کی وجہ سے آنسو نکالنا۔ فِي الْآرَمِ
 زمین پر چلنا۔
 تَقْلَعْتُ۔ حرکت کرنا تیزی و دھڑکی
 دکھانا۔ فِي الْبِلَادِ۔ ملک میں گھومنا
 پھرنا۔
 اَلْقُلْفُ وَالْقُلْفَانُ۔ ایک درخت
 ہے جو انار کے شاہر ہے۔ اس میں کالی
 مریچ کے برابر گول اور پکینے والے گتے
 ہیں حُرُوفُ اَلْقُلْفَتِیْنِ۔ وہ
 حروف جن کے ادا کرتے وقت آواز
 میں جنبش ہوتی ہے یہ پانچ حروف
 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے
 اَلْقُلْفَالُ۔ ہمیشہ سفر میں رہنے والا۔
 اَلْقُلْفُ وَالْقُلْفُ۔ سریع الحركت



معاون۔ اَلْقَلْعُ جیس کے ساتھ
سفر میں کوئی سامان نہ ہو۔
قَلَمٌ قَلَمًا (من) وَقَلَمٌ الشَّيْءُ کاٹنا
قلم کرنا۔ اَلظُّفَرُ زائد ناخن کو
کاٹنا۔ قَلَمٌ نَحْوُ قَلَمٍ کاٹنا۔
اَلْقَلَمُ کہنے کا قلم۔ جب تک تراشا اور
بنایا نہ جائے قَلَمٌ اور تِرَاعَةٌ
کہلاتا ہے اور بنانے کے بعد قَلَمٌ۔
وہ تیر جو قمار میں قوم کے درمیان گھمایا
جائے۔ ج۔ اَقْلَامٌ وَقَلَامٌ۔
اَلْقَالِمُ۔ فاعل بغير زوجہ مرد۔ ج۔
قَلَمَةٌ۔
اَلْقَلَامَتَا۔ وہ تراشا جو کسی چیز کو کاٹنے
سے گرے قَلَامَتَا اَلظُّفَرُ ناخن
کا تراشا۔ حقیر چیز کو قلام سے
تشبیہ دی جاتی ہے۔
اَلْاَقْلَامُ۔ ولایت۔ بلکہ جس کو متنازع
ہو جیسے پاکستان۔ ایران عرب شہر
اقالیم سبعہ میں سے ایک اقلیم۔ ج۔
اَقَالِيمُ (کہہ دیں)۔
اَلْمَقْلَمَةُ۔ قلمدان ج۔ مَقَالِمُ
مَقَالِمُ الرَّمَحِ۔ نیزہ کی گریں۔
اَلْمَقْلَمَةُ۔ بیوہ عورت۔ سَارَتْ
اَلْفُ مَقْلَمَةٍ (ہزار سپاہیوں
کی مسلح ٹہالیں روانہ ہوئی)۔
مَقْلُومُ الظُّفْرِ۔ کمزور و ذلیل
شخص۔
اَلْمَقْلَامُ۔ مقرض۔ مینجی۔
قَلَمٌ رَامَةٌ۔ سر پر مار کر جگہ سے
ہٹانا۔ اَلشَّيْءُ کسی چیز کو برے سے
اُٹھا کر دینا۔
اَلْقَلَمَةُ۔ مصدر۔ ادنیٰ لوگ۔
قَلَنَسَ۔ ٹوپی پہنانا۔ قَلَنَسَ
اَلشَّيْءُ۔ کسی چیز کو دھانپنا چھپانا
اَلرَّيْلُ۔ سینہ پر ہاتھ رکھ کر تالہ داروں

کی طرح کھڑا ہونا۔
قَلَنَسَ۔ ٹوپی پہنانا۔
اَلْقَلَنَسَةُ وَالْقَلَنَسِيَّةُ۔ ٹوپی
ج۔ قَلَنَسٌ وَقَلَنَسِيَّةٌ۔
قَلَنَسٌ وَقَلَنَسِيَّةٌ۔ تصنیف
قَلَنَسَتِ وَقَلَنَسِيَّةٌ قَلَنَسَتِ
یادری کی ٹوپی (ماتہ الناس کے نزدیک)
قَلَنَسَتِ وَقَلَنَسِيَّةٌ۔ اَلْقَلَمُ وَغَيْرُهُ گوشت
وغیرہ کو کڑا ہی میں پکانا۔ پکانے والا
قَلَنَسٌ اور پکا ہو گوشت مَقْلُومٌ
کہلاتا ہے۔ اَلْاَمِلُ اَوَلُ
کا ہٹکانا۔ دنگ کرنا۔ اَلْقَلَمَةُ وَ
بِالْقَلَمِ گئی چھینکنا۔ گلی ڈنڈا
کھیلنا۔ قَلَنَسٌ وَقَلَنَسِيَّةٌ۔
منبر پر رہنا۔
قَلَنَسَ۔ بغض دیکھنا۔ عَنِ
قَلَنَسَ۔
قَلَنَسَ اِلَى الرَّجُلَانِ ایک دوسرے کو
مبغوض رکھنا۔ قَلَنَسَ قَلَنَسًا
میں باہم بغض ہے۔
اَقْلَوِي اَقْلَوِي اَقْلَوِي۔
بیچیں ہونا۔ سکھانا۔ بگڑنا۔
قَلَنَسَ۔ پھاڑ کی بازی پر چڑھنا
اور جھانکنا۔ اَقْلَوِي۔ پرندہ کا بلند
پرداز کے ساتھ اُڑنا۔ درخت کی چوٹی
پر بیٹھنا۔ اَقْلَوِي۔ کسی کی پیٹھ
پر چڑھنا۔
اَقْلَوِي۔ ہر چیز سے بکا۔ بکا چکا جان
کہھا۔ ترش ہوئی بکا۔ سبھی۔
اَلْقَلَنَسَةُ۔ قَلَنَسٌ وَقَلَنَسِيَّةٌ
قَلَنَسٌ وَالْقَلَنَسِيَّةُ۔
گلی ڈنڈا۔ ایک کڑی کا چنڈا ہے
جو ہرن کو چالسی کے لئے بنایا جاتا
ہے۔

اَلْقَلَوَةُ۔ اپنے سوار کو لے کر آگے بڑھنے
والا چوپایہ۔
اَلْقَلَوِي۔ بلند پرواز پرندہ۔
قَلِي يَقْلِي (من) قَلِيًا۔ اَلْقَلَمُ وَغَيْرُهُ
گوشت وغیرہ کو پکانا۔ بھونا۔ پکانے
والے کو قَلَنَسٌ اور پکے ہوئے گوشت
کو مَقْلِي کہلاتا ہے قَلِيًا
سر پر مارنا۔ اَلرَّجُلُ وَقَلِيَّةُ
يَقْلُو (من) قَلِيًا وَقَلِيًا
وَمَقْلِيَّةُ۔ مبغوض رکھنا۔ مبغوض
قَالَ اور مبغوض مَقْلِي ہے۔
اَلْقَلِي وَالْقَلِيَّةُ۔ ترش گھاس کو جلا کر
اُس سے بنایا ہوا کھا۔ سبھی۔
اَلْقَلِي۔ پہاڑوں کی چوٹیاں، انسان
کی کمر پریاں مفرد قَلِي ہے۔
اَلْقَلَا۔ کڑا ہی بنانے والا۔ کڑا ہی
میں گوشت پکانے والا۔
اَلْقَلَاةُ۔ وہ جگہ جہاں کڑا ہی بنائی
جاتی ہے۔
اَلْقَلِيَّةُ۔ وہ چیز جو کسی ہوتی چیز کو
خوشبودار بنائے۔ بگاڑ دینا
اونٹ کے گوشت سے بنایا ہوا
گر جاج قَلَا تَا۔
اَلْقَلِي وَالْمَقْلَاةُ۔ وہ برتن جس میں
کھانا پکایا جائے۔ دیکھی کڑا ہی۔
کڑا جاج میں بگاڑ دیا جاتا ہے۔
ج۔ مَقَال
اَلْمَقْلَاةُ۔ کڑا ہی بنانے کی جگہ۔
اَلْمَقْلِي۔ پکی ہوئی چیز۔ بھونا ہوا گوشت
یا سالن۔
قَلَمٌ قَلَمًا اَلشَّيْءُ۔ بھونا
بھونا۔ مومچوں کو مومزد گوشت
کرنا۔ اَلْبَيْتُ۔ گھر کو جھاڑ
دینا۔ فاس قَلَمٌ وَقَلَمًا وَ
اَقْتَمَ مَا عَلَى الْمَدِينَةِ۔





دسترخان پر موجود تمام چیزوں کو
کھا لینا۔ اَقْتَمَ الشَّيْءَ تَدْبِيرًا
اختیار کرنا۔ اعتما کرنا اور نہ چھوڑنا
قَتَمَهُ خَشَكًا کرنا۔ قَتَمَ النِّجَمَ
تارے کا آسمان میں بالکل سر رہینا
تَقَتَّمَ مَا عَلَى الْمَائِدَةِ جو کچھ بھی
دسترخان پر مہربس کھا جانا۔ اَقْتَنَى
کسی چیز کے اوپر چڑھ جانا اَتَخَلَّصَ
کھجور کی چوٹی پر چھڑھنا۔ الرَّجُلُ
قَرَضَهُ اپنے مہربس سبقت لے جانا۔
اَلْقَمَةُ ہر چیز کی انتہائی بلندی۔ لوگوں
کی جماعت۔ بدن۔ قد۔ جہ: قِیمَ
اَلْقَمَةُ جو مقدار شیر ایک مرتبہ میں
لے۔ کوڑی۔ گندگی ڈالنے کی جگہ۔
اَلْقَمِيمُ خشک شدہ سبزی۔ ستر
اَلْقَمَامَةُ کڑا کرکٹ۔ لوگوں کی
جماعت۔ جہ: قِیمَ
اَلْمَقَمُ وَالْمَقَامُ وہ شخص جو
دسترخان پر موجود ہر چیز کو کھائے۔
اَلْقَمَةُ جھاڑو۔ جہ: مَقَامٌ
وَالْمَقَامَةُ کھروالے جانوروں
کے دونوں ہونٹ۔
قَمَارَانٌ وَقَمُوذٌ قَمَاءٌ
وَقَمَاءٌ وَقَمَاءٌ وَقَمَاءٌ
حقیر و ذلیل ہونا۔ صفت۔ قَمِيئٌ
جہ قَمَاءٌ وَقَمَاءٌ
قَمَاءٌ قَمَارَانٌ اَلْمَكَانُ وہ کسی جگہ
داخل ہونا۔ قیام کرنا۔
قَمَاءٌ مَٹانا۔ اکھاڑنا۔
قَمَاتٌ قَمَاتٌ وَقَمُوذٌ
قَمُونًا وَقَمُوذٌ وَقَمَاءٌ
قَمَاءٌ وَقَمَاءٌ (لَو) اَلْمَاشِيَةُ
جاور کا موٹا ہونا۔ بالکان بخش حالی
کی وجہ سے کسی جگہ اقامت کر کے
فرہ ہونا۔

اَقْتَمَ الرَّجُلُ ذَلِيلًا کرنا۔ اَلشَّيْءُ
اَو الْمَكَانُ فُلَانًا کسی جگہ یا چیز
کا بہت پسند آنا۔ اَقْتَمَتِ
اَلْمَاشِيَةُ جاوڑ کا فرہ ہونا۔
قَامًا لَا مَقَامًا مَوَاقِفَ مَوَاقِفَ کرنا۔
قَامًا اَلْمَكَانُ۔ جگہ کا موانق
آنا۔
تَقَتَّمَ فُلَانٌ اَلْمَكَانَ جگہ کا موافق آنا
اور قیام کرنا۔ اَلشَّيْءُ تَقَطَّرَ اَتَقَطَّرَ
جمع کرنا۔ کسی چیز کا عمدہ حصہ لینا۔
اَقْتَمَا الشَّيْءَ جمع کرنا۔
اَلْقَمُوذُ وہ جگہ جہاں اونٹ اور اونٹنی
قیام کرنے سے فرہ ہوں، نیز وہ
جگہ جہاں قیام کرنے سے مرد و عورت
موتے تازے ہو جائیں۔
اَلْقَمَاءَةُ جہ: قِیمَ وَالْمَشْمَاءَةُ
وَالْمَقْمُؤَةُ وہ جگہ جہاں دست
نہایتی ہو۔
اَلْقَمَاءَةُ وَالْقَمَاءَةُ خوش حالی۔
آرام و اطمینان۔
اَلْقَمِيئُ ذلیل۔ حقیر۔ کمینہ۔
قَمَحٌ قَمُوْحَانٌ وَقَامَحٌ
تَقَمَحٌ وَالْقَمَحُ اَلْبُيْرُ اَوِٹ
کاسیراب ہو کر پینے سے باز رہنا اور
سر اٹھانا فاعل قَامَحٌ جہ: قَمَحٌ
وَقَمَحٌ قَمَمَحُ الشَّرَابِ
مِنَ الشَّرَابِ مشروب کو برا جانا
قَمَحٌ قَمَحًا (س) وَاَقَمَحَ
تَقَمَحَ السُّوْقِ ستر کو بچا کرنا
— الشَّرَابِ مشروب کو بھیلی پر
رکھ کر چاٹنا۔
قَمَحٌ فُلَانًا حق واجب سے کم دے کر
دفع کرنا۔
اَقَمَحَ السُّبُلُ خوش میں دان پڑنا
— اَلْبُرُ گندم کا پک جانا۔ اَلرَّجُلُ

سر اٹھانا اور آنکھ بند کرنا۔ بَانِبِ
ناک اونچی رکھنا۔ اَنْعَلَ اَلْاَسِيرَ قیدی
کاسر اٹھا ہوا سپردنا بوجہ تنگی کے۔
فُلَانٌ بَمِذْ بِنَا۔
اَلْقَمَحُ گندم۔ گیہوں کے ایک دانہ کو
قَمَحَةً کہتے ہیں۔
اَلْقَمَحَةُ کھانے کی چیز یا پانی کی وہ
مقدار جو زمین میں سمائے وَالْقَمَحَانِ
وَالْقَمَحَانِ زعفران
اَلْقَمَحَانَةُ کھوپڑی کی بڑی اور گدی
کے گڑھے کے درمیان کی جگہ۔
اَلْقَمِيْحَةُ چورن۔ بھینکی، دوا وغیرہ
کی رخیل، قَمُوْحٌ لِلنَّبِيذِ
بہت بھیز پینے والا آدمی۔
اَلْقَمَحُ ذُفْرٌ گدی کے اوپر والی
بڑی۔ کھوپڑی کی پھلی بڑی۔ جہ:
قَمَاحِدٌ
قَمَاحٌ اَدْعُوْا (رض)
انکا کرنا۔ باز رہنا۔ نیک یا بد کام
میں مسلسل رہنا۔
قَمَدٌ قَمَدًا (س) لمبی اور موٹی گردن
والا ہونا۔ صفت اَقَمَدٌ مَوْنُثٌ
قَمَدٌ
اَقَمَدَ الرَّجُلُ گردن اونچی کرنا۔
اَلْقَمَدُ وَالْقَمَدُ اَلْقَمَادُ سخت
قوی۔ موٹا۔
اَلْقَمَدُ وَالْقَمَدُ اَلْقَمَدُ اَلْقَمَدُ
لمبی گردن والی اور بعض نے کہا ہے
کہ لمبی اور موٹی گردن والی۔ قَمَرٌ
قَمَرًا (رض) بازی لگانا، شرط لگانا
قمار بازی بازی کرنا۔ الرَّجُلُ جوئے
میں کسی پر غالب آنا۔ قَمَرٌ قَمَرًا
(رض) اَلرَّجُلُ مَالًا کسی آدمی
کا مال چھیننا قَمَرٌ قَمَرًا اَلشَّيْءُ
نہایت سفید ہونا۔ اَلرَّجُلُ بَرَفٌ

مینائی کا چننا دھیانا اور کچھ نظر نہ آنا۔
چاندنی رات میں نیند نہ آنا۔ اَلْقَلَاذُ
وَالْمَاءُ وَغَيْرُهُمَا۔ گھاس و پانی
کا بکثرت ہونا۔ اَلْأَلْبَلُ: پانی
سے سیراب ہونا قَامَرًا
مَقَامَرَةً وَقَمَارًا۔ بازی بھٹنا
شرط لگانا۔ جَوَّاهِیْنَا۔ اَقْمَرًا لَیْلًا
چاندنی رات ہونا۔ اَلْمَلَالُ: پورا
چاند ہونا۔ اَلْقَوْمُ۔ چاند کا قوم پر
طلوع ہونا۔ قوم کا چاند نکلنے کے
لئے انتظار کرنا اَلْقَمَرُ: پھل کے
پکڑنے میں اتنی دیر ہونا کہ اس کو
سردی مار جائے۔ کچنے سے قبل
جاڑے کا پھل کو مار جانا۔ اور اس
کی مٹھاس کا زائل ہونا، اَلْأَلْبَلُ:
پانی سے سیراب ہونا۔ بہت گھاس
میں چرنا۔

تَقَمَّرَ۔ شکار کی جستجو میں چاندنی رات
میں نکلنا۔ اَلرَّجُلُ: جوئے میں غالب
آنا۔ چاندنی رات میں کسی کے پاس آنا
اَلطَّیْبُ وَالطَّیْبَاءُ۔ چاندنی رات میں
شکار کرنا۔ اَلطَّیْرُ: پرندہ کو رات میں
آگ کی روشنی سے چوندا کرنا تاکہ
ننکا کر لیا جاسکے۔

تَقَامَرُ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کے ساتھ
بازی لگانا۔ باہم قمار بازی کرنا۔
اَقْمَارًا قَمِیْرًا۔ نیند ہونا چاند
جیسے رنگ والا ہونا۔

اَلْقَمَرُ۔ چاند تین راتیں گزرنے کے بعد
آخر تک قمر کہلاتا ہے اور انہما
سے تبیری شب تک کے پاند کو هِلَالٌ
کہتے ہیں جہ اَقْمَادُ۔

اَلْقَمَرَانِ۔ سورج اور چاند۔ اَقْمَادُ
اَلْعِلْمِ وَشُمُوسُ۔ علماء اہل
علم۔ محاورہ ہے اِسْتَرْعِیْتُ

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (میں نے اس
کو مدت دی)۔

اَلْقَمَرَةُ۔ سفید سبزی مائل رنگ تبیری
رات کا چاند۔ اَلْمَاءُ اَلْقَمَرُ بہت
پانی۔ کَلْبَةُ قَمَرَةٍ چاند سے منور
رات۔ اَلْحُرُوفُ اَلْقَمَرِیَّةُ۔ وہ چودہ
حروف تہجی جن کے ساتھ الف لام
کلام لفظوں میں آواز دیتا ہے جیسے
اَلْقَمَرُ میں۔

اَلْقَمَرِیُّ۔ کبر ترکی طرح کا ایک خوش آواز
پرندہ ہے۔ مَوْنَتُ قَمَرِیَّةٌ ج
قَمَرٌ وَقَمَارِیُّ

اَلْقَمَارُ۔ مصدر، ہر وہ کھیل جس میں یہ
شرط لگائی جائے کہ غالب کوئی چیز
مغلوب سے لے گا۔ خواہ تاش کے
ذریعہ سے ہو یا کسی اور ذریعہ سے
جوا۔

اَلْقَمِیْرُ۔ قمار باز۔ هُوَ قَمِیْرٌ
وہ جوئے بازی میں اس کا ساتھی ہے
جہ اَقْمَادُ جیسے نَصِیْرٌ کی
جمع اَنْصَارُ ہے۔

اَلْاَقْمَرُ۔ جس کا رنگ سفید سبزی مائل
ہو۔ سفید۔ وَجَّهٌ اَقْمَرٌ چاند
جیسا چہرہ۔ سَحَابٌ اَقْمَرٌ بھرا
ہوا بادل۔

اَلْقَمَرَاءُ۔ اَقْمَرِی مَوْنَت، چاند کی روشنی
لِیْلَتُهُ مَقْمَرٌ وَمَقْمَرَةٌ چاندنی
رات عرب کی مثال ہے اَنْشَطُ
مِنْ طَبِیِّ مَقْمَرٍ۔ (طبی مقرر سے
زیادہ فریفتہ)۔

اَلْمَشْمُورُ۔ مفعول، شرمکروہ چیز۔
محاورہ ہے وَصَعْتُ بَیْدِی بَیْنِی
اِخْدَی مَقْمُورَ رَکَبَیْنِ (میں
نے دو شروں میں سے ایک کے رین
ہاتھ رکھا۔

قَمَرٌ قَمَرًا (نض) اَلشَّیْءُ جَمْعُ کَرْنَا۔
چٹکیوں سے پکڑنا۔

اَقْمَرُ الرَّجُلِ۔ بے فائدہ مال حاصل کرنا
اَلْقَمَرُ۔ بے نفع مال۔

اَلْقَمَرَةُ۔ ایک مٹھی بھر کھجور بنانا
کا غنچہ جس میں دانہ ہو جہ قَمَرٌ۔

قَمَسَ قَمَسًا (نض) وَاَقْمَسَهُ
فِی الْمَاءِ: ڈوبنا۔ اَقْمَسَ اَلْمُکْرَبُ
ستارہ کا غروب ہونا۔ قَمَسَتِ

اَلدَّلُو فِی الْمَاءِ: ڈول کا پانی میں
غائب ہونا۔ قَمَسَ بِہِ فِی الْمَاءِ
پانی میں پھینک دینا۔ اَلْوُكْدُ فِی
اَلْبَطْنِ۔ بچے کا پیٹ میں حرکت کرنا

قَمَسَ قَمَسًا وَقَمُوسًا (نض)
وَاَنْقَمَسَ فِی الْمَاءِ۔
اَلْقَمَسَ اَلْمُکْرَبُ۔

ستارہ کا غروب ہونا۔

فِی التَّوْکِیْتِ۔ کنویں میں چلا نکالنا
قَمَسَ الرَّجُلُ اَدْمُتُوں کو سیراب کرنا
قَامَسَ قِمَا سًا وَمَقَامَسَ

غوطہ زنی میں غالب آنا۔ مناظرہ و مباشر
کرنا قَامَسَ حُوتًا مِیْجَلً سے غوطہ
زنی میں مقابلہ کرنا۔ یعنی اپنے سے
زیادہ جاننے والے کے ساتھ مناظرہ
و مباشر کرنا۔

تَقَامَسُوا فِی الْمَاءِ۔ ایک دوسرے
کے ساتھ غوطہ زنی کرنا۔

اَلْقَمَاسُ۔ سمندر۔ بڑا اور گہرا سمندر۔
جہ: حَقَّ اَمِیْنُ۔ لغت عربی میں

ایک کتاب کا نام، موجودہ زمانہ میں ہر
ڈکشنری کو تائوس کہا جاتا ہے، گو یا یہ
مُحْتَجَمٌ اور کِتَابُ اللُّغَةِ کے
متبادل ہے۔

اَلْقَامُوسُ۔ کنویں میں پانی کی کثرت۔
اَلْقَمِیْسُ۔ جہ: قَمَامِیْسُ وَالْقَمِیْسُ



قَمِصٌ - وَ الْقَمِصُ - وَهُ رَمِي
جس سے بکری کو ذبح کرتے وقت
اس کے پاؤں باندھتے ہیں تاکہ
قَمِصٌ - کال ایک سال - خُولٌ
قَمِصٌ - پُر سال - شَهْرٌ قَمِصٌ
تمام مہینہ -

الْقَمَاطُ - چور - پچوں کے پرتے بنانے
والا -

الْقَمَاطُ - بہت سے چور -

قَمِصٌ قَمِصٌ - الشیءُ جمع ہونا -

الشیءُ جمع کرنا - الْفَرَبَةُ

مشکیزہ کو بندے باندھنا - بھڑنا

الْعَدْوُ - بھاگ جانا -

الْقَمَطُ - منتشر ہونا - سکرنا - لِلشَّيْءِ

شر کے لئے تیار ہونا - الْيَوْمُ :

شدید ہونا عَلَيَّ الشَّيْءُ - بھیر کرنا

جمع ہونا -

الْقَمِطُ - الْقَمِطُ - جرد و دان کنائی

رکھنے کا قھیلا - لمزوں کے پیروں

میں ڈالنے کا کاٹھ - مڑا اور ٹھنڈا

آدمی - فکر و مؤنت دونوں اور

کبھی تار کا اضافہ کر کے - امراةٌ

قَمِصٌ - کہتے ہیں - جہ - قَمَاطُ

الْقَمَاطُ - الْقَمَاطُ - سخت

شر یا شدید آلام -

الْقَمِطُ - مڑا پستہ قد آدمی اجتماع

کے ساتھ چلنا -

قَمَعٌ قَمَعٌ (ف) - ڈرہ یا کرڑے

سے مارنا - مقصد سے بٹانا - مِثْلُ

ذیل کرنا - مَعَ الْقَمَرِ - مِثْلُ

کامنہ باہر کو مڑنا قَمَعٌ فِي الشَّيْءِ

داخل ہونا - الْكُتُبُ وَخَوَّهَا

اچھی اچھی چن لینا - اور بڑی جھڑ

دینا - قَمَعَتِ الْمَرْأَةُ بَنَاتَهَا

بِالْحَسَاءِ انگلیوں کے پیروں کو منڈی

کم قمیص - قمیص پنہا - انتارہ کے
طور پر لپکتا ہے قَمِصٌ الْوَلَايَةُ
دَالِ الْمَارَةِ - اس نے ولایت و
امارت حاصل کی - وَ قَمِصٌ لِبَاسُ
الْعِزَّةِ - عزت کا لباس زیب تن کیا
قَمِصَتِ الرَّوْحِ - رُوح کا ایک
جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونا
تناسخ ارواح - فلاسفہ ملائکہ کے
نزدیک -

الْقَمِصُ - مڈی جو ابھی ابھی اندر سے

سے نکلی ہو - چھٹی چھٹی مکھیاں

جو پانی پر اڑتی ہیں واحد - قَمِصَةٌ

الْقَمَاسُ - مصدر - پریشانی - قلق -

الْقَمِصُ - کرتا - فکر و مؤنت دونوں

طرح متصل ہے جہ - آقَمَتِ

وَقَمِصٌ وَقَمِصٌ - الْقَمِصُ

مشر - بچے پر لپٹی ہوئی جھٹی - دل کا

غلاف - عوارہ ہے هَتَكَ الْخَوِّ

قَمِصٌ قَلْبُهُ (خوف سے اس کے

دل کا غلاف پھٹ گیا) الْقَمِصُ

وَالْقَمِصُ - اپنے سوار کو لے کر

اچھینے والی سواری الْقَمِصُ

شیر - مضطرب و بے چین آدمی -

فُلَانٌ قَمِصٌ الْحَنَجَرَةُ -

(فلاں چوٹا ہے) -

قَمِطٌ قَمِطٌ (ن) - وَقَمِطٌ

مڑا پاؤں باندھنا - جیسا کہ گوارہ

میں بچے کپڑوں میں لپیٹ دیئے جاتے

ہیں - الْأَيْلُ - ایک قطار میں لانا

- طَعَمَ الشَّيْءُ - چکنا -

الشَّيْءُ - کپڑنا -

الْقَمَاطُ - رسی جس سے باندھا جائے

وہ چوڑا کپڑا جو سب کو گوارہ میں رکھتے

وقت اس کو لپیٹ دیتے ہیں جہ :

الْقَمِصُ - وہ کنواں جس میں زیادہ پانی
کا دبر سے ڈل ڈوب جائیں -

الْقَمِصُ - شریف آدمی جہ - قَمَاسُ

دَقَمَاسَةً

الْقَمِصُ - امیر - سمندر کا زیادہ پانی

والا حصہ - جہ : قَوَامِصُ الْقَوَامِصُ

حادثے - آفتیں - مصائب -

قَمِصٌ قَمِصٌ (ن) - وَقَمِصٌ

الْقَمِصُ - ادھر ادھر سے جمع کرنا

قَمِصٌ - جو اس کو کھا لینا خواہ کھیا

إِقَمِصُ الْقَمَاشُ - ادھر ادھر سے

کھانا -

الْقَمَاشُ - شیخ زمین پر جو ادنیٰ اشیا

میں قَمَاشٌ شَيْءٌ ہر چیز کی

گھٹیا اور ردی قسم - قَمَاشٌ

الْمَاشُ - ادنیٰ و کمینے لوگ - قَمَاشٌ

الْبَيْتُ - اسباب خانہ واری -

فَرَجٌ قَمِصَةٌ

الْقَمِصُ - مصدر - ہر چیز کا ردی حصہ

الْقَمَاشُ - اسباب فروش پر چون

فروش - کہاڑی -

قَمِصٌ قَمِصٌ وَقَمَاسٌ قَمِصٌ

(ن) - الْقَمِصُ وَغَيْرُهُ هُوَ

دعیزہ کا اگلے دونوں پاؤں یکدم اٹھانا

اور یک دم ٹپکنا اور پھیلنا ٹانگوں کو

اپنی حالت پر رکھنا - الْعِزُّ : کودنا

بھاگنا - قَمِصًا مِثْلُ - بھاگنا -

رُوْكَدَانِي كُنَا - الْتَاوَةُ بِالرَّوْلِفِ

ناقہ کا سوار کھیتی کے ساتھ لے جانا

وَقَمِصٌ الْبَحْرُ بِالْسَفِينَةِ

سمندر کا کشتی کو اچھلنے والے اونٹ

کی طرح حرکت دینا قَمِصًا قَمِصًا

پہنانا - قَمِصٌ التَّوْبُ - کپڑے



سے رنگ دینا۔ قَمَعًا۔ سر کی چوٹی پر مارنا اَلْبَرْدُ النَّبَاتِ جَاوے کائنات کو جلا دینا۔ مَا فِي السَّعَاءِ شِدَّتْ سَی جانا۔ اَلشَّرَابُ۔ مشروب کا بغیر گھوٹ لئے حلق سے اتر جانا۔ سَمَعًا یَمْلَأُ بِنَاسِ کسی کے لئے چپ ہونا۔ اَلْوَطْبُ شِدَّةً پَرَقِیفَ لَکَانَ تاکہ سبیل اس کے اندر چلا جائے۔ قَمَعَتْ قَمْعًا (س) عینہ۔ آنکھ کے کوسے میں درم ہونا صفت قَمَعًا۔ اَلْفَرْسُ گھوڑے کا ایک گھٹا دوسرے سے ٹوٹا ہونا۔ عَرَقُوبُ الْفَرَسِ۔ گھوڑے کی کونچوں کا موٹا ہونا۔ اَلطَّبِیَّةُ مَکْہی کا ہرن کی ناک میں داخل ہونا اور اس کی وجہ سے اس کا سر ملانا۔ فَلَانٌ الدَّوَاءُ خَشِکَ دَوَاکُ جَاکُنَا۔ قَمَعُ الْبُسْرَةِ وَنَحْوَهَا کُجور کی ڈنڈی کو جدا کرنا۔ قَمَعَتِ الْبُسْرَةُ وَنَحْوُهَا کُجور وغیرہ کی ڈنڈی کا علحدہ ہونا۔ اَقْمَعًا۔ کسی کا زکاں مغلوب کرنا ذیل کرنا اَقْمَعْتُهُ۔ وہ میرے پاس آیا۔ اور میں نے اس کو اپنے سامنے سے دفع کر دیا۔

تَقَمَعٌ۔ حیران ہونا۔ مہوش ہونا چڑھنا تنہا بیٹھنا۔ ذلیل ہونا۔ اَلذُّبَابُ مَکْہی کو دفع کرنا۔ تَرَکْتُ بَنَاتِیَ مَعَهُ میں نے اس کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نیستی اور سستی سے مکھیاں اُڑا رہا تھا۔ وَاقْتَمَعَهُ الشَّيْءُ۔ انتخاب کرنا اَقْتَمَعَهُ مَا فِي الْاِنَاءِ۔ برتن کا سب کچھ پی جانا۔

اَلْقَمْعُ۔ ذلیل ہونا۔ اَلرَّجُلُ تَنَاهَا بَیْضًا اَلْقَمْعُ وَالْقَمْعُ وَالْقَمْعُ۔ قِیف ج: اَقْمَاعٌ۔ وہ ڈنڈی جو کھجور یا دیگر

مپھلوں کے نیچے بطور پینڈی کے لگی ہوتی ہے اور تشبیہی بنا پر درزی کے انگشتانہ کو بھی کہتے ہیں ج: اَلْقَمْعُ۔ آنکھ کے کوسے میں درم یا سرخی یا کوئی اور خرابی۔ گھوڑے کے گھٹنے میں موٹاپا یا اس کے کونچ میں اوپر کی طرف موٹاپا۔ حلق کا نرہ۔ سانس کی نالی پھیپھڑوں تک۔ گلے میں ابھری ہوئی بڑی باہر کی طرف۔

اَلْقَمْعَةُ وَالْقَمْعَةُ وَالْقَمْعَةُ مِنَ الْهَالِ۔ بہترین مال۔ اَلْاَقْمَعُ مَوْتٌ قَمْعًا ج: قَمْعٌ وَالْقَمْعُ۔ آنکھ کے کوسے میں سرخی والا۔ اَلْاَقْمَعُ مِنَ الْخَيْلِ۔ وہ گھوڑا جس کے ایک پاؤں کے گھٹنے میں موٹاپا ہو۔

اَلْقَمْعَةُ۔ اونٹ کی کولان کی چوٹی۔ آنکھ کا زخم حلق کا نرہ۔ قَمْعَةُ الدَّيْبِ۔ دُم کا آخری کنارہ۔ قَمَعَتِ الشَّيْءُ۔ بہترین حصہ۔ ج: قَمْعٌ۔ اَلْقَمْعَةُ۔ وہ مکھی جو سخت گرمی میں اونٹ اور ہرن پر بیٹھتی ہے اور اُن کو کاٹتی ہے (جمع لفظ کے برخلاف) مَقَامِعٌ۔

اَلْقَمْعُ مِنَ الْخَيْلِ۔ وہ گھوڑا جس کے ایک گھٹنے میں موٹاپا ہو۔ سِنَامٌ قَمْعٌ۔ بڑی کولان۔ طَرَفٌ قَمْعٌ۔ وہ آنکھ میں پھنسی ہو۔ اَلْقَمْعَةُ۔ توشہ دان کے بالائی حصہ میں رکھی ہوئی چیز منتخب شے۔ ج: قَمْعٌ۔

اَلْقَمِيعَةُ مِنَ الْاَدْوَابِ۔ چرواہوں کے دونوں کانوں کے درمیان اٹھا ہوا حصہ۔ دُم کا آخری کنارہ۔ ج: قَمَائِعٌ۔

اَلْقَمْعَةُ۔ لکڑی یا لوہے کا ہنٹر۔ جس سے سزا دی جائے۔ ج: مَقَامِعٌ۔

اَلْقَمْعُوعُ۔ مغلوب۔ مغلوب۔ بد معنی میں بتلا۔ مین اَلْمَالِ مِنتَیْبِ اور پسندیدہ مال۔ قَمَعَلٌ قَمَعَلَةٌ اَلثَّبَتُ۔ نباتات کے شکوفے اور کلیاں پھوٹنا۔ اَلرَّجُلُ قَوْمٌ یا چرواہوں کا سردار ہونا۔

اَلْقَمْعَالُ۔ سردار قوم۔ چرواہوں کا چودھری۔

اَلْقَمْعُلُ۔ تنگ منہ یا بڑی اَلْقَمْعُلُ بڑا پیالہ۔ ج: قَمَاعِلٌ و قَمَاعِلٌ

اَلْقَمْعُولَةُ۔ نباتات کی کلیاں اور شکوفے۔ پھولوں کے نیچے سر کی گریں ج: قَمَاعِلٌ۔

قَمَقَمٌ قَمَقَمَةٌ۔ مَا عَلَى الْهَائِدَةِ دِسترخوان کی تجسس کرنا اور بچے ہونے کھانے کو جمع کرنا۔

تَقَمَقَمَ۔ پانی میں داخل کیا جانا جتنی کہ ڈوب جائے۔ اَلشَّيْءُ کسی چیز کی بھڑی پر چڑھنا۔

اَلْقَمَقَمُ۔ حلق۔ مٹکا۔ پانی گرم کرنے کا تانبے کا برتن۔ عطار کا برتن گلاب پاش جس سے خوشبودار شئی مہانوں اور اہل محل پر چھڑکی جاتی ہے (خیل) اَلْقَمَقَامُ وَالْقَمَقَامُ وَالْقَمَقَامُ وَالْقَمَقَامُ۔ بڑی تعداد۔

سمندر۔ سمندر کا گرا حصہ۔ چھڑکی کے سبب۔ ایک قسم کی جوئیں۔ واحد: قَمَقَامَةٌ۔ اَلْقَمَقَامُ وَالْقَمَقَامُ

وَالْقَمَقَامُ۔ بہت سنی سردار۔ ج: قَمَقِمٌ و قَمَقِمَةٌ۔ اَلْقَمَقَامُ بڑا معاملہ۔ رَجُلٌ قَمَقَامٌ کہیں کوئی



جو خبیث کھانوں کو پسند کرے۔
أَفْعَالٌ قَحْدٌ۔ ایوں کے مہینے کے بارہ دن
جن میں بعض لوگوں کے خیال کے مطابق
سال بھر کے ہر مہینے کی ہوا کے متعلق تخمینہ
اور قیاس کیا جاتا ہے۔

الْقَمِيمَةُ۔ پر کھجور جو پکنے سے پہلے خشک
ہو جائے۔ الْقَمِيمَةُ۔ قَمِيمٌ
کے معنی میں مستعمل ہے قَمِیلاً قَمِیلاً
(س)، أَلْقُوهُمُ۔ قوم کی تعداد زیادہ ہونا
خوش حال ہونا فَلَانٌ۔ لاغر ہونے
کے بعد فرہم ہونا۔ رَأْسُهُ۔ سر میں
جوئی پڑنا۔ جوئی زیادہ ہو جانا۔
صفت۔ قَمِیلاً بَطْنُهُ۔ پیٹ مڑا
ہونا۔ قَمِیلاً وَاقْتَمَلَ الْغُرُوعُ
چراگ لگے، سبز ہو جانا اور سیاہ ہونا
اور ایسا معلوم ہونا کہ اُس پر جوئی
ہوں۔

تَقَمَّلَ الرَّجُلُ۔ آدمی کے جسم پر قدرے
موٹاپا ظاہر ہونا۔
الْقَمَلُ۔ جوں۔ پیش۔ واحد قَمَلٌ
دَبَّ قَمَلُهُ۔ موٹا ہونا۔ قَمَلٌ
قَرِیْبٌ۔ صنوبر کا پھل۔
الْقَمَالُ۔ جوں۔
الْقَمَلُ۔ چھرواں جو ادنٹ کے لاغر ہونے
کے بعد لاحق ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیاں
واحد۔ قَمَلَةٌ۔
الْقَمَلُ۔ وہ شخص جو نگہبندی کے بعد

مال وادار ہو۔
تَقَمَّنَ الْأَهْلُ۔ کسی کام کا ارادہ کرنا
خاص ارادہ کرنا۔ الشَّيْءُ: کسی چیز
کو لینے کے قریب ہونا۔
الْقَمَنُ۔ قریب۔ رشتہ دار۔ قابل دلائل
مذکر و مؤنث و واحد و جمع و ثننیہ۔
سب کے لئے ہے۔ مَوْطِنٌ
قَمَنٌ۔ وطن بنانے اور سکونت کرنے

کے لائق نگہ جِئْتُ بِالْحَدِيثِ عَلَى
قَمَنٍ میں نے بات اُس کے طور
طرز پر بیان کی۔

الْقَمِنُ۔ قابل و لائق۔ تیز رفتار قریب
رَاحَةً قَمِنَةً بدلو۔

الْقَمِیْنُ۔ تیز رفتار۔ لائق و مستحق۔ حمام کی
بھی قَمِیْنٌ اور قَمِیْنٌ کے بعد بآء
یا صین یا لام کا صلہ لایا جاتا ہے اور

بر لایا جاتا ہے هُوَ قَمِیْنٌ وَ قَمِیْنٌ
بَكْدًا یا مِیْنٌ كَدًا یا بَكْدًا۔ ج

قَمِنًا وَ قَمِیْنُونَ مَوْتٌ قَمِیْنَةٌ
ج: قَمِیْنَاتٌ وَ قَمِیْنٌ أَقْمِنُ

بِهَذَا الْأَمْرِ اس کام کے لئے کیا سی
موزوں ہے۔ هَذَا الْأَمْرُ مَقْمَنَةٌ

لِذَاكَ۔ یہ معاملہ اس کے لئے موزوں ہے
الْمَقْمَنُ۔ سٹا ہوا۔ سکڑا ہوا۔

قَمَهُ قَمُوْهُ (اس) البیڑ: ادنٹ کا پانی
نہ پینا اور سر اٹھانا۔ الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ:

کسی چیز کا کبھی ڈوب جانا اور کبھی اوپر
اُبھرانا۔

تَقَمَّهُ فِي الْأَرْضِ۔ زمین پر چلنا سفر کرنا
۔ خَرَجَ فَلَانٌ يَتَقَمَّهُ۔ فلان نکل

کھڑا ہوا مگر اُس کو معلوم نہیں کہ کہاں
جانا ہے۔

الْقَمَةُ۔ مہرک کم لگنا۔
الْقَامِيَةُ۔ فاعل ج: قَمَتُهُ۔

اِقْمَهُ۔ مرجانا۔ الرَّجُلُ أَوِ الْبَعِيرُ:
سراٹھانا۔ بِالْمَكَانِ۔ ایک جگہ

اقامت کر کے پھر سفر کرنا۔ تیز رفتار ہونا
الْقَمَهُدُ۔ کمینہ اصل آدمی۔ بد صورت

تَامَا لَا مَقَامًا (دیا ہے) موافقت
کرنا مَا يَقَامُ مِیْنِیْ هَذَا الشَّيْءُ:

(یہ چیز مجھے موافق نہیں ہے)۔
قَمَنَ قَمَنٌ (ن) آنکھیں چھا کر تلاش کرنا

لاٹھی سے مارنا۔ قَمَنَ فِي الْجَبَلِ:

بھاڑ کی بلندی پر چڑھنا۔
اِقْتَمَنَ۔ غلام بنانا۔ خاموش ہونا۔

وَ اِقْتَمَنَ اِقْتِمَانًا۔ سیدھا کھڑا ہونا
اِسْتَقَمْتُ بِالْأَمْرِ۔ مستقل ہونا۔ بکریوں

کے ساتھ مقیم رہنا اور اس کا دودھ
پینا۔

الْقَمَنُ۔ بھاڑی۔ وَالْقَمَنَاتُ قَمِیْنٌ کی
آستین۔

الْقَمَنُ۔ وہ غلام جس کے ماں باپ بھی غلام ہوں
مفرد و جمع و مذکر و مؤنث سب کے

لئے مستعمل ہے اور کبھی اس کی جمع
اِقْمَانٌ وَ اِقْمَانٌ آتی ہے۔

الْقَمَانَةُ وَالْقَمُونَةُ۔ غلامی۔
الْقَمَةُ۔ بھاڑی۔ بھاڑ کی چوٹی قَمَتُهُ

کُلِّ شَيْءٍ۔ ہر چیز کا بلند ترین جہت
ج: قَمَنٌ وَقَمَانٌ وَقَمُونٌ د

قَمَانٌ۔
الْقَمَتَةُ۔ رسی کی ایک لڑی۔ ایک دوا

ج: قَمِنٌ۔
الْقَمِنُ۔ طرز و طریقہ۔

الْقَمِیْنَةُ۔ مشروب رکھنے کے لئے
کانچ کا برتن۔ بول ج: قَمَانِيٌّ

وَقَمَانٌ۔
الْقَمَانُونُ۔ اصل۔ ضابطہ۔ ہر چیز کا پیمانہ

ایک تاروں والا باجر ج: قَمَانِيْنٌ
(کلمہ ذیل ہے)

قَمَانٌ قَمُونٌ (د) الشَّيْءُ: نہایت
سرخ ہونا اللَّحِيْةُ مِنَ الْخَضَابِ

ڈاڑھی کا خضاب سے سیاہ ہونا۔
قَمَانٌ اللَّحِيْنُ۔ دودھ کر پانی میں ملانا

قَمَانٌ قَمَانٌ (د) قَمَانٌ قَمَانٌ وَ
تَقْنِيَةً لِحِيْنُهُ۔ ڈاڑھی کا خضاب

سے سیاہ کرنا۔ قَمَانٌ الشَّيْءُ: نہایت
سرخ بنانا۔

قَمَانٌ قَمَانٌ (د) اِقْمَانُ الرَّجُلِ:



قَنَّا قَنَارًا (ق) وَاقْنَا الرَّجُلَ :

قتل کرنا کسی کے قتل پر برائیگیز کرنا

أَقْنَأَ الْأَدِيمَ : چڑے کو فاسد کرنا

الشَّيْءُ فَلَانًا : قدرت دینا قریب ہونا

فَنِيَّ قَنُوءًا (س) مَرَا - الْأَدِيمَ :

فاسد ہونا - آخر قاتی کی نہایت

تیز سُرُخ :

الْمُقْنَأَةُ وَالْمَقْنُوءَةُ : دو مقام ہوا

وہو پ نہ پڑتی ہو۔

الْقُنْبُلُ : اٹھنے کی گردن، ٹھکنی عورت

قَنَبَ قَنُوبًا (ن) ص) فِي الشَّيْءِ :

داخل ہونا - اَلشَّيْءُ غَرُوب

ہونا - اَلْكَرْمَ - انگور کی بیل کے

اُس حصہ کو کاٹ دینا جس کا اٹھانا

تکلیف دے۔

قَنَبَ الزَّرْعَ : کھیتی کے خوشوں کے

پتے ظاہر ہونا - الزَّرْعُ : پھولوں کا

کلیوں سے نکلنا - اَلْكَرْمَ - انگور

کی بیل کے زائید حصہ کو قلم کرنا - اَلْأَسَدُ

بِمِخْبَكِهِ : شیر کا اپنے پنجے کو اپنے

کف میں داخل کر لینا - قَنَنْتَ وَ

اَقْتَنَنْتَ وَ لَقَنْتَ الْخَيْلَ :

لوٹ کے لئے گھوڑوں کی جماعت ہونا

قَنَبُوا وَ لَقَنْتُوا أَنْخَالَ الْعَدَا وَ

(وہ جماعت بن کر لوٹ ڈالتے کے لئے

دشمن کی طرف گئے) قَنَبَ الرَّجُلُ

فِي بَيْتِهِ : داخل ہونا۔

اَقْنَبَ : چلنے میں دور نکل جانا۔ قرض خواہ

سے یا اپنے سے بڑے شخص سے پوشیدہ

ہونا۔

قَنَبَ الرَّهْرَ : پھول کا غلات - ج :

قُنُوبٌ :

الْقَانِبُ : فاعل - چھیننے والا بمبھریا۔

تیز رفتار نامرساں - ایک مقام سے

دوسرے مقام تک چھٹیاں پہنچا بیولا

وَ اِدْقَانِبٌ وَهْ وَادِي جِسْ كَاسِيْلَاب

دُور سے آتا ہو۔

الْقُنْبُ : بڑا ابدان شیر کا پنجہ۔

مِنْ كَفِّ الْأَسَدِ : شیر کے پنجے کا

وہ نرم حصہ جس میں وہ اپنے ناخن چھپا لیتا

ہے۔

الْقُنَابُ وَ الْقَنَابُ وَ الْقَنَابَةُ

پتوں کی وہ ڈوڈی جس میں دانہ کا خوشہ

ہوتا ہے الْقَنَابُ - شیر کا پنجہ ملک

کی تانت۔

الْقُنْبُ وَ الْقُنْبُ : بیگ۔ ایک سن

کی قسم کا درخت جس کی چھال سے ریاں

اور ڈوری بنائی جاتی ہے۔

الْقُنْيَبُ : لوگوں کی جماعت بہت گری

گھٹا۔

الْقُنْيَابُ : قاصد تیز رفتار نامرساں

ڈالکیہ۔

الْمَقْنَبُ : سواروں کی جماعت جھوٹ

کے لئے جمع ہوں - جہ، مَقْنَبٌ وَ

الْمَقْنَبُ : شیر کا پنجہ اَلْمَقْنَبُ

شیر کا کف - کہا جاتا ہے مِخْبَكُ

الْأَسَدِ فِي مِقْنَبِيهِ (شیر کا پنجہ

اُس کے کف میں ہے) شکار کی کا وہ

تھیل جس میں شکار رکھا جاتا ہے۔

الْقُنْبُورَةُ وَ الْقُنْبُورَةُ : ایک پرندہ

جس کو چوڑوں اور چکاوک کہتے ہیں

جہ : قَنَابُ الْقُنْبُورَةُ : پرندہ کے

سر پر کھڑے ہوئے - زائیدہ - کلنی۔

دِجَاجَةٌ قُنْبُورَاتٍ : کلنی والی

مرخی۔

الْقُنْبُصُ : سانپ - کوتاہ قد - مَوْت

قُنْبُصَةٌ :

الْقُنْبُيْتُ : گرجی - پھول گرجی جس کو گوم

قُنْبُيْتُ کہتے ہیں۔

قُنْبَحٌ فِي بَيْتِيهِ : گھر میں چھپ جانا

قَنَبَتِ الشَّجَرَةَ : درخت کے پھول

یا پھول کا غلات میں ہونا - الرَّجُلُ :

عفتہ سے پھول جانا۔

الْقُنْبُوعُ : درخت کے پھول کا غلات

میں ہونا یا پھول کا - گیہوں کی بالیں

دانہ پر غلات - کمینہ - کوتاہ قد آدمی۔

الْقُنْبُوعَةُ : یعنی اَلْقُنْبُوعُ پھول کی

کپڑے کی ایک قسم کی ٹوپی - کوتاہ قد عورت

قُنْبَعَةُ الْخِنْزِيرِ : سور کی ناک

کی پھیکا۔

الْقُنْبُلُ وَ الْقُنْبُلَةُ : لوگوں کی جماعت

یا گھوڑوں کا گروہ جہ قَنَابٌ بِلْ -

الْقُنَابُ بِلْ - بڑے سردالا - وَالْقُنْبُلُ

موتا اور مضبوط آدمی۔

قَنَنْتَ قَنُوبًا (ن) اطاعت کرنا

تمام وکال خاموشی کے ساتھ نمازیں

کھڑا ہونا - خدا تعالیٰ کے آگے خضوع

و خضوع کرنا - قَنَنْتَ اللّٰهَ اور

قَنَنْتَ اللّٰهَ دونوں طرح بولا جاتا ہے

قَنَنْتَ لَہَا - عاجزی و نزاری کرنا۔

قَنَنْتَ قَنَابًا (ن) کم خوراک ہونا۔

اَقْنَنْتَ - نمازیں طویل قیام کرنا - خدا

کے لئے عاجزی و نزاری دکھانا۔

دشمن کے لئے بددعا کرنا - ہیشہ رج ادا

کرنا - دیر تک جہاد کرنا۔

اَقْتَنَنْتَ : مطیع ہونا۔

اَلْقَانِبُ : فاعل - بندگی پر قائم و دائم

رہنے والا نمازی جہ : قَنَنْتَ

اَلْقُنْيَبُ (مذکر مؤنث دونوں کے

لئے) کم خوراک سِقَاؤُ قُنْيَبٍ : وہ

مشک جس سے پانی نہ ٹپکے نہ رہے۔

اَمْرًا قُنُوبٌ شَوْبَرٌ : مطیع عورت

قُنْبَلُ الرَّجُلِ : چلنے میں مٹی اڑانا۔

اَلْقُنْبُلُ : نلام۔

قَنَحَ قَنَحَارًا (ن) اَلْعُودَ : بکری کا برا

ق



موڑ کر بید کی طرح کرنا الشارب؛
سیراب ہونے کے بعد سر اٹھانا سیرابی
کے بعد مزید پینے کو مکروہ سمجھنا۔
وَأَفْتَحَ الْبَابَ - دروازہ کو کھلی
سے اٹھانا۔

قَتَحَ الْبَابَ - دروازہ پر قتاہ لگانا
تَفْتَحَ - سیرابی کے بعد مزید پینے کو مکروہ
سمجھنا۔

الْقَتَا ح - دروازہ کے پیچھے کی آٹنا کر
دروازہ نہ کھل سکے۔

الْقَتَا حَة - لمبی اور ٹیڑھی کبھی - وہ مکاری
جس کو کسی دوسری موٹی ٹکڑی کے پیچھے
اڑا کر اس کو حرکت دی جائے۔
سانگ لگانے کی مکاری۔

الْقَتَا حِرْ ج - قَتَا حِرْ وَالْقَتَا حِرْ -
عظیم الجثہ چیز اَلْفُ قَتَا حِرْ -
موٹی ٹاک - اَلْقَتَا حِرْ - چوڑے
نتھنے اور مہ دالا - شدید و کثرت

آواز والا۔
الْقَنْخُورَةُ وَالْقَنْخِيرَةُ و
الْقَنْخُورَةُ وَالْقَنْخُورَةُ -
بڑی چٹان۔

الْقَنْدُ ج - قَنْدُ وَالْقَنْدُ بَدِيدُ
ج - قَنْدٌ بَدِيدٌ شکر کھانڈ - اَلْقَنْدُ بَدِيدُ
کا فور - زعفران سے بنی ہوئی خوشبو۔
خوشبودار شراب جَاءَ بِالْأَمْرِ
عَلَى قَنْدٍ بَدِيدٍ (وہ معاملہ کر اپنے
طرز پر لایا) سَوَيْتُ مَقْنَدًا و
مَقْنُودًا - قدر ما ہوا ستہ۔
كَلَامٌ مَقْنَدٌ - شیریں کلام - رَجُلٌ
مَقْنُودٌ الْكَلَامِ - میٹھی گفت گو کرنے
والا۔

الْقَنْدَرُ - (ایک پانی کا جانور ہے جس کا
رنگ سرخ اور دم چوڑی ہوتی ہے
اور اس سے پرستین بنائی جاتی ہے)

قَنْدَسَ گناہ کے بعد توبہ کرنا۔
فِي الْأَرْضِ - اپنے رُخ پر جانا۔
الْقَنْدَسُ قَنْدَرٌ -
الْقَنْدَسُ عُنْ - اجماع - نادان۔

قَنْدَلٌ - بڑے سردالا صفت قَنْدَلٌ
وَقَنْدَلٌ وَقَنْدَلٌ وَحِيلٌ - رَأْسٌ
قَنْدَلٌ - موٹا اور سخت سر
الْقَنْدَلُ مِيلٌ - چارغ ج - قَنْدَلٌ مِيلٌ -
(کھڑیل ہے)۔

الْقَنْدُولُ - ایک خاردار درخت۔
واحد قَنْدُولَةٌ -
أَقْنَرٌ - چھوٹی گھڑیا سے پینا۔

الْقَانُزُ وَالْقَنْزُ شکاری صیاد
القَنْزُ شکار۔
الْقَنْزُوعَةُ وَالْقَنْزُوعَةُ وَالْقَنْزُوعَةُ
وَالْقَنْزُوعَةُ وَالْقَنْزُوعَةُ - بول کا
ایک مجموعہ جو سر پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ سر
کے آس پاس کے بال - باقی ماندہ پر

مُرْغ کی کفنی یا چوٹی۔
الْقَنْزُوعَةُ - بہت ٹھکی عورت ج -
قَنْزَعَاتٌ وَقَنْزَاعٌ -
الْقَنْزَارُغُ - حادثے - بول اکلام حقیر گوگ
اَقْنَسَ الرَّجُلُ - کمیز آدمی کا اعلیٰ
نسل کی طرف منسوب ہونا۔

الْقَيْسُ وَالْقَيْسُ - اصل نسل نژاد
الْقَيْسُ ج - قَيْسٌ وَالْقَيْسُ ج -
قَوَائِمٌ وَالْقَوَائِمُ - سر کی چوٹی
لوہے کی خرو کی چوٹی - راستہ کا وسط
فرس کے دونوں کانوں کے درمیان ابھری
ہوئی ہڈی۔

الْقَيْسُ - بیل ج - قَيْسٌ -
قَنْسَرٌ قَنْسَرٌ الشَّدَاثَةُ أَوِ الشَّنْجُ
سختیوں یا سالوں کی وجہ سے بڑھا ہوا
تَقَنْسَرُ - بڑھا ہونا - سکرنا۔
الْقَنْسَرُ وَالْقَنْسَرُ وَالْقَنْسَرُ -

بہت بڑھا۔
الْقَنْسَرُ شَدِيدٌ -
قَنْسَرٌ تَقَنْسَرٌ - کم کرنا - قَنْسَرٌ فِي الْأَمْرِ
کسی چیز میں کم دیا جانا یا تنگی پانا۔
قَنْصَ قَنْصًا (ض) - الکثیر - پرندہ کر
شکار کرنا۔

تَقَنْصَ وَاقْتَنْصَ - اَلْقَنْصُ أَوِ الْقَنْصُ
پرندہ یا ہرن کو شکار کرنا۔
الْقَنْصُ - اصل۔
الْقَنْصُ - شکار۔
الْقَنْصُ - صیاد، شکاری
الْقَنْصُ - بہت سے صیاد۔
الْقَنْصُ - شکاری، شکار۔
مؤنث
قَنْصَتٌ -
الْقَنْصَتُ لِلْقَنْصِ - پرندوں کا پوٹہ۔
ج - قَوَائِمُ - شکاری پارٹی۔
الْقَنْصَلُ - ٹھکانا - سفیر ایک حکومت
کا نمائندہ جو دوسری حکومت میں رہے۔
ج - قَنْصَلٌ (کلمہ داخل ہے)۔
الْقَنْصَلِيَّةُ - کنسولیٹ - قنصل
کے رہنے کی جگہ۔
قَنْطَ قَنْطًا (ض) - وَقَنْطَ قَنْطًا (ض)
(ن ص) - وَقَنْطَ قَنْطًا (ض) -
ناما امید و مایوس ہونا صفت - قَنْطٌ
وَقَانِطٌ وَقَنْطٌ -
قَنْطٌ قَنْطًا (ن ص) - روکنا منع کرنا
قَنْطٌ وَقَنْطٌ - کسی کو مایوس کرنا
قَنْطٌ -
قَنْطٌ الشَّرُّ - بہت سے مال کا مالک
ہونا جس کو قنطار سے وزن کیا جاسکے
صحرانوردی چھوڑ کر شہر میں سکونت کرنا
مکینا - طویل قیام کرنا اور ٹھکانا -
الشیء: باندھنا - مضبوط کرنا۔
الْقَنْطَرُ - ایک پرندہ - وَالْقَنْطَرُ
حادثہ - آفت۔

بہت بڑھا۔
الْقَنْسَرُ شَدِيدٌ -
قَنْسَرٌ تَقَنْسَرٌ - کم کرنا - قَنْسَرٌ فِي الْأَمْرِ
کسی چیز میں کم دیا جانا یا تنگی پانا۔
قَنْصَ قَنْصًا (ض) - الکثیر - پرندہ کر
شکار کرنا۔

تَقَنْصَ وَاقْتَنْصَ - اَلْقَنْصُ أَوِ الْقَنْصُ
پرندہ یا ہرن کو شکار کرنا۔
الْقَنْصُ - اصل۔
الْقَنْصُ - شکار۔

الْقَنْصُ - صیاد، شکاری
الْقَنْصُ - بہت سے صیاد۔
الْقَنْصُ - شکاری، شکار۔
مؤنث

قَنْصَتٌ -
الْقَنْصَتُ لِلْقَنْصِ - پرندوں کا پوٹہ۔
ج - قَوَائِمُ - شکاری پارٹی۔
الْقَنْصَلُ - ٹھکانا - سفیر ایک حکومت
کا نمائندہ جو دوسری حکومت میں رہے۔
ج - قَنْصَلٌ (کلمہ داخل ہے)۔

الْقَنْصَلِيَّةُ - کنسولیٹ - قنصل
کے رہنے کی جگہ۔
قَنْطَ قَنْطًا (ض) - وَقَنْطَ قَنْطًا (ض)
(ن ص) - وَقَنْطَ قَنْطًا (ض) -
ناما امید و مایوس ہونا صفت - قَنْطٌ
وَقَانِطٌ وَقَنْطٌ -

قَنْطٌ قَنْطًا (ن ص) - روکنا منع کرنا
قَنْطٌ وَقَنْطٌ - کسی کو مایوس کرنا
قَنْطٌ -

قَنْطٌ الشَّرُّ - بہت سے مال کا مالک
ہونا جس کو قنطار سے وزن کیا جاسکے
صحرانوردی چھوڑ کر شہر میں سکونت کرنا
مکینا - طویل قیام کرنا اور ٹھکانا -
الشیء: باندھنا - مضبوط کرنا۔
الْقَنْطَرُ - ایک پرندہ - وَالْقَنْطَرُ
حادثہ - آفت۔

بہت بڑھا۔
الْقَنْسَرُ شَدِيدٌ -
قَنْسَرٌ تَقَنْسَرٌ - کم کرنا - قَنْسَرٌ فِي الْأَمْرِ
کسی چیز میں کم دیا جانا یا تنگی پانا۔
قَنْصَ قَنْصًا (ض) - الکثیر - پرندہ کر
شکار کرنا۔

تَقَنْصَ وَاقْتَنْصَ - اَلْقَنْصُ أَوِ الْقَنْصُ
پرندہ یا ہرن کو شکار کرنا۔
الْقَنْصُ - اصل۔
الْقَنْصُ - شکار۔

الْقَنْصُ - صیاد، شکاری
الْقَنْصُ - بہت سے صیاد۔
الْقَنْصُ - شکاری، شکار۔
مؤنث
قَنْصَتٌ -
الْقَنْصَتُ لِلْقَنْصِ - پرندوں کا پوٹہ۔
ج - قَوَائِمُ - شکاری پارٹی۔
الْقَنْصَلُ - ٹھکانا - سفیر ایک حکومت
کا نمائندہ جو دوسری حکومت میں رہے۔
ج - قَنْصَلٌ (کلمہ داخل ہے)۔

الْقَنْصَلِيَّةُ - کنسولیٹ - قنصل
کے رہنے کی جگہ۔
قَنْطَ قَنْطًا (ض) - وَقَنْطَ قَنْطًا (ض)
(ن ص) - وَقَنْطَ قَنْطًا (ض) -
ناما امید و مایوس ہونا صفت - قَنْطٌ
وَقَانِطٌ وَقَنْطٌ -

قَنْطٌ قَنْطًا (ن ص) - روکنا منع کرنا
قَنْطٌ وَقَنْطٌ - کسی کو مایوس کرنا
قَنْطٌ -

الْقَنْطَرَةُ: پل۔ مصدر۔ بلند عمارت
ج: قَنْطَرٌ۔

الْقَنْطَارُ: ایک وزن جس کی مقدار مختلف
اوقات میں مختلف ہوتی رہی ہے۔

ایک سو رطل بہت سال ج: قَنْطَارٌ
الْقَنْطَارِيُّونَ: ایک تلخ بڑی جوتھو
معدہ ہے (کلمہ ذیل ہے) قَنْطَارٌ
مُقَنْطَرٌ: کامل یا بہت سال۔

(میلان کے لئے ہے)۔

قَنْعَ قَنْعًا وَقَنْعًا

(س) جو کچھ چھین آئے اس پر صبر کرنا
قَنْعَ قَنْعًا (ن) عاجزی دکھانا اور

ناگنا۔ الْحَبْلُ: پہاڑ پر چڑھنا
قَنْعَتْ وَقَنْعَتْ قَنْعًا (س) (ن)

الْأَيْلُ: اونٹوں کا اپنے ٹھکانے کی طرف
مڑنا اور اپنے مالوں کی طرف آنا۔

قَنْعَتْ قَنْعًا (ن) قَنْعَتْ وَ
اسْتَقْنَعَتْ الشَّيْءَ: محسن کا دراز

ہونا، حالانکہ اُس کے قص میں اتار نہ
ہو۔

قَنْعًا: راضی کرنا۔ قَنْعَ الْمَرْءُ: عورت کو اور راضی کرنا۔

كَاسَهُ بِالسَّيْفِ أَوْ الْقَصَا: تلوار یا لٹھی سے سر پر مارنا۔ قَنْعًا

خَوِيَّةً وَ عَارًا: کسی کو رسوائی و عار
میں مبتلا کرنا۔ قَنْعَ الدَّيْبِ:

مرض کا سر کے پیروں کو کھڑا کرنا قَنْعًا
الشَّيْبِ خِمَادًا: بڑھاپے کا قاب

آنا۔ اَنْعَرَ اسْمًا أَوْ صَوْتًا: اپنے سر یا آواز

کو بلند کرنا بِسَبَبٍ يَبِيٍّ فِي الصَّلَاةِ
ہاتھوں کو بلند کر کے خدا سے رحم کی طلب

کرنا اَلْأَنْعَاءَ: برتن کو چھکانا تاکہ
اس میں سے کوئی چیز نکلے۔ برتن کو

پانی کے بہاؤ کی طرف کرنا تاکہ وہ بھر

جائے۔ اَنْعَعَ الْأَنْعَاءَ فِي النَّهْرِ
برتن کو نہر کے بھاؤ کی طرف کرنا تاکہ

پھر جائے۔ اَنْعَعَ الْأَيْلَ جِرَاكًا
کی طرف پھیرنا۔ مالکوں کی طرف متوجہ

کرنا۔ تَنْعَعٌ: تہکفت قناعت کرنا کپڑا اور صفا

— فِي السَّلَاحِ: ہتھیار لگانا۔
تَنْعَعَتِ الْمَرْءُ: بالانعام۔

اور راضی اور صفا۔ اَفْتَنَعَ بِالسَّيْفِ: کسی چیز پر راضی ہونا

اور قناعت کرنا اَلْأَيْلُ: اپنے
ٹھکانے پر واپس آنا۔ الْمَرْجُلُ

الْأَيْلُ أَوْ الْعَلَمَةُ لِيَمَّا وَاهَا
اونٹ یا بکری کو ٹھکانے پر واپس لانا۔

الْقَنْعُ: ج: اَنْعَاعٌ وَالْقَنْعُ: ج:
قَنْعٌ ہتھیار اَلْقَنْعُ: دالْقَنْعُ:

کھجور کی ٹنڈیوں سے بنی ہوئی پشت
یا ٹرے جس میں کھانا رکھا جاتا ہے۔

الْقَنْعُ: پہاڑ کے نزدیک باقیماندہ
پانی۔ ریت کا ہموار میدان ج: قَنْعًا وَ

اَنْعَاعٌ اَلْقَنْعَةُ: دو ٹیلوں کے درمیان سطح

مستوی ج: قَنْعٌ وَ حَجَّ قَنْعًا
اَلْقَنْعَةُ: سوال۔ دیوار کا طاق۔

اَلْقَنْعَةُ مِنَ الْحَبْلِ أَوْ السِّنَاكِ:
پہاڑ یا کوٹن کی لمبی، انسان کے

سر کا اچھا برا حصہ۔ باریک رینگ۔
اَلْقَنْعُ: اور راضی دوپٹہ۔ کھانا رکھنے

کا برتن ٹرے یا پشت ج:
اَنْعَاعٌ وَ اَنْعَاعٌ كَثُفٌ اَلْقَنْعُ:

عَنِ الشَّيْءِ: کسی چیز کو کھول کر علانیہ
بیان کرنا۔

اَلْقَنْعُ: قنح۔ اَلْقَنْعُ: ج: قَنْعٌ وَ اَلْقَنْعُ: ج:
قَنْعًا۔ قنح۔

قَنْعًا۔ قنح۔

الْقَانِحُ: فاعل جو کچھ چھدیں آئے اُس
پر راضی ہونے والا۔ نابزنی دکھانے

سوال کرنے والا ایک مقام سے
دوسرے مقام کی طرف نکلنے والا قوم

کا خادم و نوکر ج: قَانِحٌ وَ
قَنْعٌ۔ رَجُلٌ قَنْعٌ: تھوڑی

سی چیز پر راضی ہونے والا۔ شَاهِدٌ
قَنْعٌ: وہ گواہ جس پر یا جس کی گواہی

پر اکتفا کر لیا جائے اس میں مذکر و
مؤنث واحد و جمع سب یکساں ہیں۔

رَجُلٌ قَنْعٌ: جس کی رائے پسند کی یا
اَلْقَنْعُ: طمع و رغبت۔ سوال و عاجزی

قناعت شَاہِدٌ مَّقْنَعٌ: وہ گواہ
جس کی شہادت پر اکتفا کر لیا جائے

ج: مَقْنَعٌ فَلَا تَكُنْ مَقْنَعٌ:
رفاں ہمارے لئے کافی رضا مندی

کا باعث ہے اَلْمَقْنَعُ: دالْمَقْنَعُ:

اور راضی، چپوٹا دوپٹہ۔ اَلْمَقْنَعُ: مفرد وہ شخص جس کا سر خندہ

اوپر کو اٹھا رہے قَنْعٌ مَقْنَعٌ: جس
کے دانت اندر کی طرف مڑے ہوں۔

اَلْمَقْنَعُ: فاعل۔ سر کو اٹھا کر دھینے
والا۔

اَلْمَقْنَعُ: سر پر لوہے کا خود اور راضی والا
کپڑوں میں ڈھانپا ہوا سر کو ڈھانپنے

والا۔ اَلْقَنْعَاتُ: جس کے جسم اور چہرہ پر بہت

بال ہوں۔ قَنْعٌ قَنْعًا: اَلْمَكَانُ: کسی جگہ کی

مٹی چھٹ جانا۔ اَلْفَرْسُ: گھوڑے
کی گدی کا سفید ہونا۔

قَنْعًا بِالسَّيْفِ: ٹھوٹے کرنا
اَنْفَتَ: کان کا لنگنا۔ اور ڈھیل ہونا

بہت لشکر والا ہونا۔ وَ اسْتَقْنَعَتْ:
انہی معاش کے لئے اُس کی تدبیر اور



رہنے کا قرار رکھنا۔ اُسْتَنْفَتْ
الْمَجْلِسِ۔ مجلس کا گول ہونا۔
الْقَنْفُ۔ مصدر۔ کان کا چھوٹا اور
سر سے چپکا ہوا ہونا۔
الْقَنْفُ۔ سیلاب سے آمدہ بجی ہوئی مٹی
جو سطح زمین پر پھیل کر بھٹ گئی ہو۔
الْقَنْفُ۔ متفرق بانوں والا کم بانوں
والا۔

الْقِنَاتُ وَالْقِنَاتُ۔ بڑی ناک والا
الْقِنِيفُ۔ لوگوں کی جماعتیں بہت پانی
والا بادل۔ کم کھانے والا شخص۔
قَنْفٌ۔

الْأَقْنَفُ۔ چھوٹے کانوں والا میں
الْخَيْلِ۔ سفید گری والا گھوڑا۔
مؤنث۔ قَنْفًا۔ انسان کا وہ کان
جس کا خم اور محیط نہ ہو۔

الْقَنْفُ۔ ج۔ قَنْفًا وَالْقَنْفُ
وَالْقَنْفُ۔ ج۔ قَنْفًا۔ سہ۔
ایک خار دار جانور تہی کے برابر جس
کے جسم پر تلک کی طرح کانٹے ملتے
ہیں اور خطرہ کے وقت ان کو پھیلا کر

ان میں چھپ جاتا ہے۔ مؤنث :
قَنْفًا۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔
الْقَنْفُ۔ ج۔ ریت کے درمیان
کا درخت۔ رگ کا ٹیلہ قَنْفُ
لیبل جینور۔ قَنْفًا۔ پہاڑ جو

لبے نہ ہوں۔
قَنْفَشًا قَنْفَشَةً۔ جلدی سے
جمع کرنا۔

تَقَنْفَشَ۔ سہکنا۔
الْقَنْفَشُ۔ چیل ہوئی ناک والا۔
بد وضع دارھی والا۔

الْمَقَنْفَشُ۔ فاعل۔ فی اللّٰس
بد وضع لباس والا۔ هُوَ مَقَنْفَشٌ
لِخَيْتِهِ۔ (وہ اپنی دارھی کو بڑی طرح

جمع کرنے والا ہے)۔
تَقَنْفَعَتِ الْقَنْفَعَةُ۔ سہکنا
الْقَنْفَعُ۔ خمس۔ جھکا۔ وَالْقَنْفَعُ
جڑی۔

الْقَنْفَعَةُ۔ مقعد۔ مادہ سہہ۔
الْقَنْفَعُ۔ ایک نوع کا چرہ۔
سمندری سیپی اس کا واحد قَنْفَعَةٌ
ہے۔

الْقَنْفَرُ۔ رہتا۔ گاڈ۔ وَالْقَنْفَرُ
ج۔ قَنْفَرٌ۔ وہ انجیز جو زمین کے
نیچے پانی کی شناخت رکھتا ہو۔
(دخیل)۔

قَنْمٌ قَنْمًا (س) الْجَزُؤُ۔ اخروٹ
کا خراب ہونا۔ صفت کا نفاذ
وَنَجْوُہ۔ پہلے تری گنا پھر اس پر غبار
بیٹھ کر میلا ہونا۔ اَلطَّعَامُ اَوْ

اللَّحْمُ وَالسَّيَّءُ وَغَيْرُهَا۔
ناسد اور بوجدار ہونا۔ صفت قَنْمٌ
اور اَقْنَمَ يَدَهُ قَنْمَةً مِّنَ
الذَّيْتِ (اُس کے ہاتھ تیل سے بوجدار
ہیں) اَلْقَنْمَةُ تیل وغیرہ کی بو کا

متغیر ہونا۔
الْأَقْنَمُ۔ شخص۔ اصل۔ ج۔ اَقْنَمٌ
(کلہ دخیل ہے)۔
قَنْیَ يَقْنُو قَنْوًا اَوْ قَنْوَانًا وَقَنْوًا
وَأَقْنَى الْمَالِ۔ جمع کرنا۔ اپنے

لئے خاص کرنا۔
قَنْیَ يَقْنُو قَنْوًا۔ اَشْرَی پیدا
کرنا۔ لَوْنُ الشَّيْءِ۔ نہایت

سرخ ہونا۔
قَنْیَ يَقْنَى وَقَنْیَ يَقْنَى قَنْوًا اَوْ
قَنْیَ دَاقْنَى دَاقْنَى اَوْ سَتْنَى
اَلْخِیَارِ شرم کو لازم کرنا۔ قَنْیَ

اَلْقَنْیَ۔ نالی کھودنا اَقْنَى (اللہ)
خدا کا کسی کو بے نیاز کرنا اور اس کو

مال عطا کرنا۔
اَقْنَتِ السَّمَاءُ۔ بارش کا روکنا۔
قَنْیَ يَقْنَى قَنْیَ اَلْأَنْفِ۔ بالہ کا دریا
حیرہ کا بلند ہونا اور نمنوں کا تنگ

ہونا۔ صفت اَقْنَى۔
تَقْنَى۔ خرچ کے بعد مال کا بچنا اور اس کا
ذخیرہ کرنا۔
اَلْقَنْیَ وَالْقَنْیَ وَالْقَنْیَ اَوْ اَلْقَنْیَ
کھجوروں کا خوشہ گچا۔ ج۔ اَقْنَاءُ
وَقَنْیَانٌ وَقَنْیَانٌ وَقَنْوَانٌ
وَقَنْوَانٌ

اَلْقَنْیَ۔ نیزہ ج۔ قَنْیَانٌ جیسے جبل کی
ج۔ جبال۔ غلٹی۔
اَلْقَنْیَ وَالْقَنْیَ۔ کسب کمائی۔
لَدَعْنَمٌ قَنْوَاہٌ وَقَنْوَاہٌ۔

(بکریاں خاص کر اس کی ملک ہیں)
اَلْقَنْیَ اَوْ۔ بدلہ۔ جزا۔
اَلْقَنْیَ۔ ج۔ قَنْیَ وَقَنْیَ وَقَنْوَاہٌ
وَقَنْیَانٌ۔ نیزہ۔ نیزہ کی کڑی۔

صُلْبُ الْقَنْیَ۔ سیدھے قد والا۔
ج۔ قَنْیَ وَقَنْیَ وَقَنْوَاہٌ
لاٹھی جھلی کاٹے وہ گڑھا جس میں کھجور
کا پردہ لگایا جائے۔ پانی کی نالی۔

اَلْقَنْیَ فاعل۔ اَحْمَرُ قَانٍ
گہرا سرخ۔
اَلْقَنْوَانُ۔ موٹا۔
اَلْقَنْیَ وَالْقَنْیَ۔ بکری یا اونٹنی

جو پانی گئی ہو۔
اَلْقَنْیَ وَالْقَنْیَ۔ نیزہ والا۔
اَلْقَنْیَ۔ پانی کی نالیاں بنانے والا۔
اَلْأَقْنَى مِّنَ الْأَنْوَعِ۔ بلند بالہ تنگ

نمنوں والی ناک۔ هُوَ اَقْنَى
اَلْأَنْفِ۔ (وہ بلند بالہ اور تنگ نمنوں
والی ناک کا ہے) مؤنث قَنْوَاہٌ۔
اَلْقَنْیَ وَالْأَقْنَى۔ مِّنَ الْحَاطِطِ



دہ جانب جس طرف سایہ لوٹے۔

الْقَنُوسِيَّاتُ - سیاہی۔
الْمَقْنُوءَةُ - دھججس پر دھوپ نہ پڑے۔

قَنِيَّ يَقْنِي قَنِيًّا وَقَنِيًّا وَ قَنِيًّا نَأْلُ الْمَالِ - کمانا۔
الحیاء شرم کو لازم کرنا۔

قَنِيَّ اللهُ قَنِيًّا رَاضِيًّا - راضی کرنا۔
قَانِي مَقَانًا الشَّيْءُ مُقْلَانًا مَوَافِقُ کرنا۔
الشَّيْءُ غَلَطَ کرنا۔

الْمَقْنُوءَةُ - ایک دوسرے میں گھل مل جانا۔
الْمَقْنُوءَةُ - الشَّيْءُ دَائِمًا رہنا۔

أَقْنَى اقْنَاءَ اللهُ قَنَانًا - غنی کرنا اور راضی کرنا۔
الْمَقْنُوءَةُ قَنَانًا وَلَقْلَانٍ - شکار کا صیاد کو موقع دینا اور قریب ہونا۔

الْقَنِيَّةُ وَالْقَنِيَّةُ - کمالی۔
قَنِيَّ لَدُنْكَ غَنَمٌ قَنِيَّةٌ وَقَنِيَّةٌ (اُس کے پاس اُس کی بکریاں ہیں) اَرْضُ مَقْنَاتَةٍ - وہ سر زمین جہاں کی آب و ہوا ہر شخص کو موافق ہو۔

قَهَبَ قَهْبًا (س) خاکی یا بھورے رنگ کا ہونا۔
صفت قہب اور اقہب ہے۔

اقْهَبَ عَنِ الطَّعَامِ کھانے سے روکنا کھانے کی خواہش نہ ہونا۔

الْقَهْبُ - بڑا اونٹ۔
الْقَهْبَةُ - بھورا سفید خاکی مال رنگ۔

الْقَهَابُ وَالْقَهَابُ - سفید اور قہبان باقی اور بھینس۔

قَهْدَ قَهْدًا (ف) مشہ۔
قریب قدم رکھ کر چلنا۔

الْقَهْدُ - بھورا سفید۔
ایک قسم کی بکری۔ نیل گائے کا بچہ۔

چوٹی نازک گلے۔
زکس کا غنچہ۔

قَهْرًا قَهْرًا (ف) غائب آنا۔
قَهْرًا اللَّحْمُ - آگ گنے کی دھ سے گوشت کا پانی رشنا قَا هَرًا

ایک دوسرے پر غلبہ کرنا۔
اقْهَرًا - مغلوب پانا۔
اقْهَرًا - کسی کا معاملہ ذلت و قہر کی طرف راجع ہوتا۔

اقْهَرًا - کسی کے ساتھیوں کا مغلوب ہونا۔
اقْهَرًا - اضطرار۔
مجبوری۔

قَهْرًا لِلنَّاسِ جس پر ہر شخص غالب آجائے۔
اقْهَرًا مِنَ الْمَيْتَةِ شَرُّ عَوْدٍ ج قَهْرًا اتَّ - اَلْقَاهُ قَاهِلًا

بلند ج قَوَاهُ۔
اَلْقَاهُ قَاهِلًا - مؤنت قاہر۔
مصر کا درار الخافہ۔
ہر جیرہ کا ابتدائی امر چاتی سینہ۔

اقْهَرًا - اسم بالغہ خدا تعالیٰ کے اساتذہ میں سے ہے۔

اقْهَرًا مَانٌ - ذلیل آعلیٰ و مصارف کا ذمہ دار۔
ج قَهَارًا مِہ۔

اقْهَرًا مِہ - قہران کا کام اور عمدہ اقْهَرًا مِہ - ٹھکانا آدمی۔

قَهْقَرًا قَهْقَرًا - تقہقہقہ۔
پچھے کی طرف لوٹنا قَهْقَرًا فِي مَشْنَبَةٍ پشت کی طرف اُلٹے پاؤں چلنا

اقْهَرًا قَهْقَرًا - ایک مغزوی شکل کی تھیر کی عمارت جو بچہ یا کھیت کے غلاف بنتے ہیں۔
اس کو عوام قَهْقَرًا کہتے ہیں۔

اقْهَرًا قَهْقَرًا - پچھے کی طرف لوٹنا۔
بولا جاتا ہے رَجَعَا الْقَهْقَرَا قَهْنًا قَهْنًا (ف) کوڈنا۔

الْقَهْبَانُ - ابریشم۔
قَهْقَرًا قَهْقَرًا - کھل کھلا کر نہنا۔

قَهْلًا قَهْلًا - قہولاً (ف) وقیل قَهْلًا (س) وَتَقَهَّلَ جِلْدُهُ

کھال کا خشک ہونا۔
قَهْلًا الرَّجُلُ احسان کی ناشکری کرنا۔
نہمت کی ناشکری کرنا۔
قُلَانًا کسی کی بڑی تعریف کرنا۔

قَهْلًا قَهْلًا (س) - قَهْلًا قَهْلًا (س) وَتَقَهَّلَ الرَّجُلُ - اپنے جسم کی خبر گیری نہ رکھنا اور اس کو پاک و صاف نہ رکھنا۔

تَقَهَّلَ آسْتَنَکَ سے چلنا عادت کی شکایت کرنا۔
مہیت اور کپڑوں کا بوسیدہ ہونا۔
تَقَهَّلَ صَوْتُهُ - آواز کا نرم اور کمزور ہونا

اقْهَرًا الرَّجُلُ - اپنے نفس کو اودھ کرنا۔
بیکار مقصد کے لئے تکلیفیں ملنا ہونا

الْقَهْلُ - ضعیف ہونا۔
گرنا۔
اقْهَرًا وَالْقَهْرُ - چہرہ مرہ خط وخال۔
مجاوہ ہے۔

حَيَّا اللهُ هَذِهِ الْقَهْلَةَ (خدا اس چہرہ کو برقرار رکھے)۔
قَهْمًا قَهْمًا (س) الرَّجُلُ بھوک کم موجدانا۔
صفت۔
قَهْمًا اقْهَمَ عَنِ الطَّعَامِ کھانے کی خواہش نہ ہونا۔
عَنِ الشَّيْءِ غفرت کرنا۔
عَنِ الشَّرَابِ وَالْمَاءِ - مشروب کو اور پانی کو چھوڑنا۔

الْأَمْلُ عَنِ الْمَاءِ - اونٹوں کا پانی پینے نہ جانا۔
الْأَمْلُ - خواہش کرنا۔

اقْهَمَتِ السَّمَاءُ - آسمان سے بادلوں کا چھٹ جانا

قَهْمًا قَهْمًا - کوڈنا۔
اقْهَمًا قَهْمًا - گھوڑے کا تیز دوڑنا۔



تیز رفتاری جیتی۔

الْقَهْوَةُ - کوتاہ قد۔

الْقَهْوَةُ - مصدر - مِنَ النِّسَاءِ

بہت ٹھکنی عورت۔

أَقْصَى - ہمیشہ قہوہ پینا۔

الْقَهْوَةُ - خالص دودھ، کمال شکم

سیر ہونا۔ شراب۔ شراب کو اس

لئے قہوہ کہتے ہیں کہ شراب پیتے

والے کی بھوک کم ہو جاتی ہے۔ بُو

طَيِّب قَهْوَةُ الْفَنِيم - منہ کی خوشبو

والا۔ مولدین کے نزدیک قہوہ کا مشروب

کبھی قہوہ کا اطلاق بَنُ یہ بھی آتا

ہے۔ نیز قہوہ کے ہول کو بھی مجازاً

قہوہ کہتے ہیں جیسے کہ نار سے مجازاً

جہنم مراد ہوتی ہے جہ: قَهْوَاتٌ

أَلْقَهْوَانٌ - عمر رسیدہ۔ موٹے سیکوں

والا بکرا۔

قَهْوَسَ وَتَقَهَّوَسَ - تیز رفتا ہونا

قَهْوَسَ الرَّحْلُ - گھبرا کر بھاگنا

تَقَهَّوَسَ گھبرا کر اور جبکہ کر چلنا

کبڑا ہونا۔

قَهِيَ قَهْيًا (س) وَأَقْهَى أَقْهَاءً

عَنِ الطَّعَامِ کھانسی خواہش کم ہونا

قَهِيَ عَنِ الشَّرَابِ - مشروب

کا چھوڑنا۔

أَقْصَى عَنِ الطَّعَامِ - کھانے کی خواہش

کم ہونا یا نہ ہونا۔

أَلْقَاهِي - تیز ذل والا۔ منتشر۔

عَلِيْشٌ قَاةٌ - خوش حال زندگی۔

قَابَ يَقُوْبُ قَوْبًا الْأَرْضَ - زمین

کو گول کھودنا۔ التَّيْرُ بِرِندُولٍ

کا انڈوں کو توڑنا۔ الرَّجُلُ - نزدیک

ہونا۔ بھاگنا

قَوْبَ الْأَرْضِ - زمین کو گولائی میں کھودنا

روند کر زمین میں نشان بنانا۔ الشَّيْءُ

اُکھاڑنا۔

تَقَوَّبَ - جڑ سے اُکھڑنا۔ محاورہ ہے

تَقَوَّبَ مِنْ رَأْسِهِ مَوَاضِعُ

(اس کے سر میں کئی جگہیں چھل گئیں)۔

وَالْقَابُ الْمَكَانُ - کسی جگہ کا کچھ

حصہ درخت اور گھاس سے صاف

کرنا۔ تَقَوَّبَتْ وَالْقَابَتِ

الْبَيْضَةُ - انڈے کا بھٹ جانا

الْقَابَتِ الْأَرْضُ - زمین کا بھٹنا۔

أَقْتَابَ الشَّيْءُ - کسی چیز کو

منتخب کرنا۔

الْقَابُ - مقدار۔ اندازہ۔ کمان کے

کونہ سے قبضہ تک کا فاصلہ۔ هُوَ

عَلَى قَابٍ قَوْسَيْنِ (دو نہایت

قریب ہے)۔

الْقُوْبُ - چوڑہ جہ: أَخْوَابٌ -

أَمُّ قُوْبٍ - آفت حادثہ۔

الْقَيْبُ - مقدار قَيْبُ قَوْسٍ

کمان کے برابر فاصلہ۔

الْقَابَةُ وَالْقَابَةُ - چوڑہ انڈا

مثال ہے تَخَلَّصْتُ قَابَةً أَوْ

قَابَةً مِنْ قُوْبٍ (چوڑہ انڈے

سے جدا ہو گیا) جب کوئی اپنے ساتھی

سے بچھڑ جائے تو یہ مثال بولی جاتی ہے

الْقُوْبُ - انڈوں کے جھلکے۔

الْقُوْبَاءُ وَالْقُوْبَاءُ ج قُوْبٌ

وَالْقُوْبَةُ د الْقُوْبَةُ - داد

کا مرض جس سے جسم پر خارش ہو کر

جھلک اُترتے رہتے ہیں عام لوگ اس

کو حَزَانٌ کہتے ہیں۔ الْقُوْبَةُ

وہ شخص جو ہمیشہ گھر میں بیٹھا رہے۔

الْقُوْبِي - چوڑے کمانے کا حصہ۔

الْمُقَوَّبُ - چھلا ہوا۔ وہ شخص جس

کی کھال سے غارش نے بال اُڑا

دیئے ہوں۔ مِنَ الْحَيَاتِ

کھال اُٹا رہا ہوا سانپ۔

قَاتَ يَقُوْتُ قَوْتًا وَقِيْبَةً

الرَّجُلُ - روزی دینا۔ رزق دینا۔

کفالت کرنا۔

أَقَاتَ إِقَاتَةً فَلَانًا وَعَلَى فُلَانٍ

روزی عطا کرنا جفا طت کرنا عذرت

دکھنا۔

إِقْتَاتَ إِقْتِيَاتًا وَتَقَوَّتَ بِالشَّيْءِ

کھانا۔ إِقْتَاتَ الشَّيْءُ - کسی چیز

کو غذا بنانا۔ إِقْتَاتَ الْكَلَامَ

گفتگو کرنا۔

إِسْتَقَاتَ إِسْتِقَاتَةً - فُلَانًا:

کسی سے روزی طلب کرنا۔

الْقَاتُ - ایک درخت ہے۔

الْقُوْتُ - غوراک غذا ج أَخْوَاتٌ

الْقَائِتُ وَالْقَيْتُ د الْقَيْتَةُ -

وَالْقَوَاتُ - غذا۔ روزی۔

الْقَائِتُ مِنَ الْعَيْشِ - کفالت

هُوَ فِي قَائِتٍ مِنَ الْعَيْشِ (وہ

گزارہ کے قابل روزی میں ہے)۔

الْمُقَيْتُ - فاعل۔ صاحب اقتدار۔

کسی چیز کا نگہبان و محافظ۔

قَاخٌ - يَقُوْخُ قَوْخًا وَتَقُوْخٌ

تَقُوْخًا - الْجَرْحُ - بھڑکے کا

متورم ہونا اور کینا۔ قَاخٌ وَتَقُوْخٌ

الْبَيْتُ - گھر کو جھاڑنا۔

أَقَاخَ إِقَاخَةً - الرَّجُلُ - سوال کے

بہرہ منع کرنے کا عزم کرنا۔

الْقَاخَةُ - صحن۔ قَاخَةُ الدَّارِ -

گھر کا صحن۔ ج قُوْخٌ -

قَاخٌ يَقُوْخُ قَوْخًا - جَوْفُ بِيَارِي

سے منہ کا خراب ہونا کیلئے قَاخٌ

تاریک رات۔

قَا دَ يَقُوْدُ قَوْدًا وَقِيَادَةً د

مَقَادَةً وَقِيْدًا وَدَدَةً د



کے سلسلہ سے علیحدہ ہو۔ مادہ، ریچھ۔ ج
قَارٌ وَقَارَةٌ قَوْسٌ وَقِيرَانٌ
القَوَارَةُ۔ کپڑے کے درمیان سے کاٹی ہوئی
چندی کیسی چیز کے اطراف سے کاٹا ہوا
حصہ۔ وہ چیز جس میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ
لیا گیا ہو۔

الْقَوَارُ۔ فراخ، کشادہ۔ ج۔ قَوْرَاؤُ
الْقَوْرِيَّاتِ وَالْقَوْرُونَ۔ بڑی
مصیبتیں بلائیں۔

الْمَقْوَرُ۔ مفعول۔ تار کو مل گیا ہوا۔ لاغر
گھوڑا۔

قَوَزٌ لَقَوِيزًا۔ النبت۔ کثیر ہونا۔
ہبت گھاس اُگنا۔

لَقَوَزُ الْبَيْتِ۔ مکان کا منہم ہونا۔
الْوَعْلُ۔ پہاڑی بکری کا دوڑنا

اِقْتَارَكَ الشَّيْرُ حَيْثُ كَاكْهَاجَانَا۔
قَاسَ يَقْوِسُ قَوْسًا الْقَوْمُ قَوْمٌ

سے سبقت لے جانا۔ الشَّيْرُ عَلَى غَيْرِهِ
وَبِهِ کسی چیز کو کسی مثال پر اندازہ کرنا۔

قَوْسٌ قَوْسَارٌ وَقَوْسٌ وَ
اسْتَقْوَسَ۔ الرَّجُلُ۔ کر کا ٹھک

جانا۔ قَوَسَتِ السَّحَابَةُ
بادل کا موسلا دھار بارش برسانا۔

قَاوَسْنِي فَقَسْنُهُ أَقْوَسُ
اس نے کمان کی عمدگی میں میرا مقابلہ کیا

اور میں اس سے عمدہ کمان والا ثابت
ہوا۔

لَقَوَسَ۔ مڑنا اور کمان کی طرح ہونا۔
قَوْسًا۔ کمان کا اٹھانا۔

قَوَسَهُ الشَّيْبُ۔ بڑھاپے کا
بالوں کو آدھے کالے اور آدھے سیاہ کرنا

اِقْتَسَى الشَّيْرُ۔ کسی چیز کا اندازہ کرنا۔
بَقْلَانٍ۔ کسی کی اقتدار کرنا۔

الْقَوْسُ۔ مصدر۔ کمان۔ موزن ہے اور
کبھی مذکر بھی مستعمل ہے تصغیر قَوْسِيَّةٌ

دَقْوَسٌ ج۔ قَسِيٌّ وَفَسِيٌّ وَأَقْوَسُ
وَقِيَّاسٌ وَأَقْوَسٌ وَأَقْيَاسٌ نَبِتٌ

الی القوس کے لئے قَسَوْتُ کہا جاتا
ہے تخصیص کے لئے قوس کی اضافت کر

دیتے ہیں جیسے قَوْسِيٌّ تَذِيَّةٌ
(دُھنئے کی کمان)۔ قَوْسِيٌّ نَبِيْلٌ

(تیر کی کمان) وغیرہ۔ اَلْقَوْسُ۔
ہر وہ چیز جو کمان کی شکل پر ہو۔ جیسے

پل کے دروازہ جات۔ مُرَابٍ وَغَيْرُهُ
قَوْسِيٌّ خُزَحٌ دھنگ گزہ۔ قَوْسِيٌّ

الذَّبْلِيُّ بھکی ہوئی بیٹھ۔
الْقَوْسِيُّ۔ راسب کا معبد۔ شکاری کا گھر

الْأَقْوَسُ۔ بھکی ہوئی کمر والا۔ ریت کا
اوپر تودہ جو گھیرے کی طرح ہو۔

لَيْسَ أَقْوَسُ۔ سخت اندھیری رات
— بَلَدٌ أَقْوَسُ۔ دور دورا شہر

وَالْقَوْسُ وَالْقَوْسِيُّ مِنَ الْآيَاتِ
لیجے اور کھنڈ آلام۔

الْقَوَاسُ۔ کماندار۔ کمان بنانے والا۔
کمان چلانے والا۔ اَلْقَوَاسِيُّ۔

راسب و پادری و سفیر کا خادم۔ اس
کی خاص وردی ہوا کرتی ہے۔

الْقَبَسُ۔ کمان ساز۔ وَالْمَقَادِسُ
گھوڑوں کو چھوڑنے والا۔

الْقَوْلِيُّ وَالْقَوْلِيَّةُ۔ چھٹی سی
کمان — اَلْقَوْلِيَّةُ۔ ایک

گھاس کا نام۔
الْمَقْوَسُ۔ کمان رکھنے کا ظرف۔ میدان

— رسی جس پر گھوڑے دوڑ کے وقت
صفت بنائی جاتی ہے۔ وہ جگہ جہاں

گھوڑے جاری ہوتا شروع ہوتے ہیں
ج۔ مَقَادِسُ۔

لَقَوَسَ۔ بعض کا بعض میں داخل ہونا۔
الْقَوْصَرَةُ وَالْقَوْصَرَةُ۔ بانس کا

ظرف جس میں کھجور وغیرہ رکھی جاتی ہیں۔

قَاسٌ يَقْوِسُ قَوْسًا وَقَوْسٌ۔ الْبَنَاءُ
منہم کرنا۔ قَوَسَ الصُّوْفَ وَ

الْمَجَالِسَ منتشر و متفرق کرنا۔ کہا
جاتا ہے بَنَى خِلَانًا لَقَوَسَ قَوْسًا۔

(نہاں نے پہلے اچھا کیا پھر رُکھا)۔
لَقَوَسَ۔ آمد و رفت رکھنا اور کسی جگہ

قرار نہ پکڑنا۔ اَلْحَلَقُ وَالْمَقْوَفُ
حلقوں یا صفوں کو منتشر و پراگندہ ہونا

لَقَوَسَ وَانْقَاصَ الْبَيْتَاءِ۔
عمارت کا منہم ہونا۔

الْقَوَاطُ۔ بکریوں کا گله۔ ج۔ اَقْوَاطٌ
الْقَوَاطُ۔ بکریوں کا گله۔ ڈالا۔

الْقَوَاطُ۔ بکریوں کے گله کا چرواہا۔
قَاعٌ يَقْوَعُ قَوْعًا۔ پھیلے پاؤں لڑنا

وَلَقَوَعٌ۔ ٹیڑھے ہو کر اور ادھر ادھر
پر بچ کر چلنا جیسے کہ کانٹے دار جگہ میں

آدھی چلتا ہے۔
الْقَاعُ۔ زم اور پست زمین جس سے پہاڑ

اور ٹیلے دور دور ہوں ج۔ اَقْوَاعٌ
وَأَقْوَعٌ وَقِيعٌ وَقِيعَانٌ قِيعَةٌ

الْقَوَعُ۔ مصدر۔ گہریں اور کھجور وغیرہ
خشک کرنے کا کھیاں ج۔ اَقْوَاعٌ

الْقَاعَةُ۔ مکان کا صحن ج۔
الْقَوَاعُ۔ جینے والا بھیر پڑا

الْقَوَاعُ۔ خگرش موزن
قَاتٌ يَقْوِفُ قَوْفًا وَاقْتَاتَ

اَشْرَفَلَانِ کسی کے نقش قدم پر چلنا۔
پیروی کرنا۔

لَقَوَفَ اَشْرَفَلَانِ کسی کی اتباع کرنا
لَقَوَفَ فِي الْمَجَالِسِ مجلس میں کسی

کے کلام کو پکڑنا اور اس کو کنا کر اس
اس طرح کہہ۔ هُوَ يَلَقُوْفُ عَلَى

مَلَأَ (وہ مال کو گھیرے دوکتا ہے)۔
الْقَالِفُ۔ فاعل بچے کے اعضاء کو دیکھ

کر اور فراست سے سب کو پہچانتے



والاج قاصمًا والقوات
القوات - آثار کہ پہچانتے والا اور
جستجو کرنے والا -
القوت - اسم تفضیل هو القوت الک
للا شردہ لوگوں میں سب سے زیادہ
جستجو کر نیوالا ہے۔
القوت - کان کا اوپر کا حصہ
القوتی - ہر خوشبودار دھوئی
القاف والقوت والقوتہ
من التقبیۃ - وہ بال جو کدی کے
اوپر کے گروے میں سے لگتے ہیں
أَحَدُهُمْ يَقُوُّ رَقَبَتِهِ (میں نے
اس کو پوری گردن کے ساتھ پکڑا
قَاتُ تَقُوُّ قَوْقًا - الدجاجة
مرخی کا کوڑا کرنا
القاف - جلد طیش میں آنے والا - امن
والقوتی والیقین من الرجال
لمناظر نگار آدمی - القاف والقوت
ایک پانی کا پرندہ -
القادوق - ایک لمبی ٹوپی جو اکثر ممالک
مغرب میں استعمال ہوتی ہے ج
قوادیق - (کہہ نیل ہے) -
القوتہ - ایک پرندہ جو غیر آباد جگہوں
کو پسند کرتا ہے -
قَوَاتٌ قَوَاةٌ - الدجاجة
مرخی کا کوڑا کرنا -
قَوَالٌ قَوَاةٌ - الریح فی الہیل
ہاٹ پر چڑھنا
قَوِيٌّ اقْوَاةٌ وَثِقَاءٌ جِنَا
پکارنا -
قَالَ يَقُولُ قَوْلًا وَقَالَ وَقِيلًا
وَقَوْلًا وَمَقَالًا وَمَقَالَةً
بولنا - کہنا - سبکنا - حکم کرنا اتفاق
رکھنا - سیدھا - ہاتھ جھکانا اور
پکڑنا - سیدھا - سر سے اٹھا

کرنا - ہر جگہ چلنا - عتہ
روایت کرنا علیہ - بہان اور اہم
لگانا الحارط - دیوار کا کرنا -
لہ مخاطب ہونا - فیہ وعینہ
اجتہاد کرنا - یثوبہ - کپڑا اوپنا
اٹھانا - یہ پسند کرنا اور
اپنے واسطے خاص کرنا القوتہ
بغلاک - قتل کرنا - نیز معنی مرنا -
غالب آنا - مال ہونا - متوجہ ہونا -
استراحت کرنا بھی مستعمل ہے نیز
کام کی تیاری اور قابلیت کے لئے
بھی آتا ہے جیسے قَالَ خَاكِي
(تیار ہو کر کھایا) قَالَ فَفَوَّت
(مارنے کے لئے مستعد ہوا اور پھر مارا)
نیز حکمت کے معنی میں بھی آتا ہے اور
حکمت ہی کا عمل بھی کرتا ہے بشرطیکہ
استقبال اور صیغہ مخاطب کا ہوا اور
اس کے پہلے استفہام ہو اور قتل و
استفہام کے درمیان میں ظرف کے علاوہ
کوئی فاعل نہ ہو جیسے الْقَوُولُ
ذِيْدًا مُنْطَلِقًا کیا تو زید کہ چلنے والا
گمان کرتا ہے - بعض نحوی قَالُ
کو بلا کسی قید کے طق کے معنی میں لاتے
ہیں یعنی خواہ مستقبل میں ہو یا ابھی
میں اور خواہ مخاطب میں ہو یا نہ ہو
جیسے قُلْتُ ذِيْدًا مُنْطَلِقًا
نے زید کہ چلنے والا گمان کیا
قَالَ وَقَالَ أَقَالَ وَأَقُولُ
اقْوَاةٌ فَلَا تَمَّاكَةً يَقُولُ
کسی پر ناگفتہ قول کا دہرائی کرنا کسی
کی طرف بلا کسی کوئی بات منسوب کرنا
- قَوْلًا بولنا سکھانا کسی کو
کے لئے حکم دینا قَوْلًا مَقَاوَلًا
فی الہیل کسی سے کسی معاملہ میں بحث
اور جھگڑا کرنا -


تَقُولُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ کسی پر جھوٹ بھینا
تَقَادُّوا فِي الْأَمْرِ کسی معاملہ میں باہم
گفتگو کرنا -
إِقْتَالَ الثَّغْنِي - کسی چیز کو منتخب کرنا
عَلَيْهِمْ - مقصد کا مطالبہ کرنا یا التَّوْبِي
تَوْبًا - ایک کپڑے کو دوسرے سے
بدلنا -
الْقَالَ وَالْيَيْلُ - مصدر بات گفتگو
- الْقَالَ : آغاز سوال کہنے والا
رَحِيلٌ قَالَ - بہت بولنے والا آدمی
- الْفَيْلُ : جواب -
الْقَيْلُ - رئیس ، سردار ، جیسے ملاطین
میں سے ایک بادشاہ جہ : أَخْوَالُ
وَأَقْبَالُ دَقِيُولُ -
الْقَوْلُ - کلام - بات - لفظ - جہ
أَقْوَالُ جج اقَادِيلُ -
الْقَائِلُ - فاعل جہ قَوْلٌ دَقِيِيلُ
وَقَالَةً وَقَوْلٌ -
الْقَالَةُ وَالْقَوْلَةُ وَالْمَقَالُ
وَالْمَقَالَةُ - قول - بات - الْقَالَةُ
کتاب کا ایک حصہ مقالہ الْقَالَةُ
لوگوں میں فاش شدہ بات خواہ اچھی ہو
خواہ بُری - دوسرے میں سونا -
الْقَوْلَةُ وَالْقَوْلُ وَالْقَوْلَةُ
الْقَوْلُ وَالْقَوْلُ جہ
قَوْلٌ وَقَوْلٌ وَالْقَوْلَةُ
الْقَوْلَةُ - شریں کلام والا -
بہت بولنے والا الْقَوْلُ - کا بولنا
گویا - جہ قَوْلُوتُ الْقَوْلُ
وَالْمَقُولُ واضح کلام والا خوش
بیان - شریں زبان الْقَوْلُ - زبان
جہ مَقَاوِلٌ وَمَقَاوِلَةٌ - امر آگ
مَقُولٌ وَمَقُولٌ - چرب زبان
اور خوش کلام عورت -
الْمَقُولُ وَالْمَقْوُولُ - اسم مفعول



کَلِمَةً مُّقَوَّلَةً۔ وہ کلمہ جو بار بار
دہرایا جائے۔
قَامَ يَقُومُ قَوْمًا وَقَوْمَةً وَ
قِيَامًا وَقَامَةً۔ کھڑا ہونا۔
قیام کرنا۔ چلنے سے روکنا چلتے ہوئے
کو کہا جاتا ہے۔ قُمْدِلِي (میرے
لئے ذرا ٹھہرو) اَلْمَاءُ: پانی کا کسی
راستہ کے نہیلے سے ٹھہرنا قَامَتْ
بِیْنِ ذَا ابْنِ سَوَارِي کا تھک جانا
اور روک جانا۔ قَامَ مِيزَانُ
النَّهَارِ۔ دن کا نصف ہونا۔ اَلْأَمْرُ
الْمُتَعَدِّلُ پُر آتما۔ اَلْمَاءُ: پانی کا جتنا۔
قَامَتِ السُّوقُ۔ بازار کا گرم ہونا
قَامَ الْحَقُّ۔ حق ثابت اور ظاہر
ہونا۔ اَلْمَتَاعُ يَكُونُ اَلْأَمْرَ
یاد لے میں اسباب کا معاملہ طے ہونا۔
عَلَى الْأَرْضِ قَامَ دُبُرًا رَدًّا۔
پہاں کھڑے ہو کر کسی چیز سے پیچھے کر
دردناں کرنا یا اَلْأَمْرَ کسی کام کا
ذمہ دار ہونا۔ عَلَى الْأَمْرِ يَكْبَانِي
کرنا عَلَى غَرِيمِهِ قَرْضِ دار سے مطالبہ
کرنا فِي الصَّلَاةِ۔ نماز شروع کرنا
أَهْلَكَ۔ اہل و عیال کے کام انجام دینا
اور خبر گیری کرنا۔ کہا جاتا ہے قَامَ
يَفْعَلُ بِحَدِّ (ادہ ایسا کر لے گا)
قَامَتِ الصَّلَاةُ۔ نماز شروع
کرنا۔ کہا جاتا ہے قَامَ بِي وَوَقَعَا
میری طرف سے بڑی خبریں پھیل گئیں۔
قَوْمَ الشَّيْءِ: کسی چیز کی تعین و تعیین
کرنا۔ اسی سے بنایا گیا ہے تَقْوِيْمُ
الْبِلَدِ ان کیونکہ اس میں شہروں کا
طول و عرض بیان کیا جاتا ہے۔ قَوْمَ
دَدَّ اَلْأَمْرَ میرے بن کو سیدھا کرنا۔
اَلْمَتَاعُ۔ اسباب کی قیمت مقرر کرنا۔
قَاوَمَهُ قَوْمًا وَمَقَاوَمَةً کسی

کے ساتھ قیام کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ قائم
مقام ہونا۔ قَاوَمَ الشُّعْرُ السَّاعَ۔
قیمت سامان کے قائم مقام ہے۔
اَقَامَهُ اِقَامَةً وَقَامَةً۔ کھڑا
کرنا اَقَامَ الْمَائِلُ اَوِ الْمَعْوَجَ
ٹیرٹھے کو سیدھا کرنا صیغہ تعجب
میں مَا اَقْوَمَهُ بھی کہا جاتا ہے مگر
شاذ ہے کیونکہ مزید یہ صیغہ تعجب
نہیں آتا ہے۔ اَقَامَ الشَّيْءُ۔
کسی چیز کو قائم و دائم رکھنا۔ بالمرکان:
کسی جگہ ہمیشہ رہنا۔ وطن بنانا۔
اَلْعَقِيَّةُ۔ حق کو ظاہر کرنا۔ الصَّلَاةُ
نماز کو پورا کرنا۔ الصَّلَاةُ۔ نماز
کے لئے تمکین کرنا۔ السُّوقُ۔ بازار
لگانا۔
تَقَوَّمَ الشَّيْءُ۔ سیدھا ہونا۔ قَوْمُهُ
تَقَوَّمَ (میں نے اس کو سیدھا کیا تو
وہ سیدھا ہو گیا)۔
تَقَاوَمَ الْقَوْمُ الشَّيْءُ بَيْنَهُمْ کسی چیز
کی اپنے درمیان میں قیمت مقرر کرنا
تَقَاوَمُوا فِي الْحَرْبِ لِرَأْيِ
میں ایک دوسرے کے دوش بدوش کھڑا
ہونا۔
اِقْتَمَرَا اِقْتِمَا مَا اَلْفُ ناک کاٹنا۔
اِسْتَقَامَ اِسْتَقَامَةً۔ سیدھا ہونا۔
معتدل ہونا۔ اِسْتَقَامَ كَمَا الْأَمْرُ
اس کا کام ٹھیک ہو گیا۔ اَلْمَتَاعُ
سامان کی قیمت مقرر کرنا۔ الشَّعْرُ:
شعر کا موزوں ہونا۔
اَلْقَوْمُ۔ لوگوں کی ایک جماعت جہ:
اَقْوَامٌ وَاَقَاوِمٌ وَاَقَائِمٌ
وَاَقَاوِيْمٌ قَوْمُ الرَّجُلِ۔
وہ رشتہ دار جو ایک دادا کی اولاد میں
اَلْقَوْمُ، دشمن جہ، قِیَمَانٌ۔ وَالْقَوْمُ
کسی جگہ مقیم ہونا اَلْقَوْمُ۔ قصد ارادہ

اَلْقَوْمَةُ۔ مصدر۔ اسم قرۃ، انسان کا قد
رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔
اَلْقَوَامُ۔ سیدھا پن۔ اعتدال۔
قَوَامُ الْإِنْسَانِ انسان کا قد اور
اس کی خوبصورت لمبائی۔ اَلْقَوَامُ
وَالْقَوَامُ۔ وہ روزی جو انسان کی
زندگی کو کافی ہر قوت لایوت
قَوَامُ الْأَمْرِ قِيَامُهُ کسی معاملہ
کا دار و مدار اور اس کا ایہ انتظام
هُوَ قَوَامُ أَهْلِهِ وَ قِيَامُهُ
(وہ اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار و مدار
ہے) اَلْقَوَامُ سیدھا رُوحِ قَوَامُ۔
سیدھا نیزہ۔
اَلْقَوَامُ۔ چوپایوں کے پاؤں کی ایک پٹاری
اَلْقَامَةُ۔ مصدر۔ لوگوں کا گرمہ اَلْقَامَةُ
مِنَ الْإِنْسَانِ آدمی کا قد۔ جہ:
قَامَاتٌ وَ قِيَمٌ۔ کنیز پر پانی
کھینچنے کی چرخہ اور اس کا سامان۔
اِسْتَقَامَ عَلَى الْقَامَةِ (انھوں
نے چرخہ پر پانی نکالا۔
اَلْقِيَامَةُ۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ
ہونا۔ يَوْمَ الْحَشْرِ۔ قبور سے
اُٹھنے کا دن۔
اَلْقِيَمَةُ۔ قام سے اسم نوع۔ قیمت
جہ قِيَمٌ۔ قِيَمَةُ الْإِنْسَانِ
آدمی کا قد۔
اَلْقِيَمِيُّ۔ قیمت کی طرف منسوب
اَلْقَامَةُ۔ مصدر۔ اِقَامَةُ الْجُنْدِ
فوجی کی ڈیوٹی۔ جہ اِقَامَاتُ
طوبی بَطَا اَلْقَامَةِ کچ کرنا
اَلْقَوِيْمُ۔ مصدر تَقْوِيْمُ الْبِلَدِ ان
شہروں کے طول و عرض اور ان کی ارضی
کے محصل وغیرہ کا بیان۔ زمانوں اور
ان کے تعلقات کو بھی تَقْوِيْمٌ کہا
جاتا ہے جہن جہ: تَقَاوِيْمُ۔



الْقِيَمَةُ عَلَى الْأَمْرِ كَيْسِي جَرِيحًا بِاخْتِيَارِ مَنَظَرِي
جیسے قبیلہ۔ وقت وغیرہ مومنٹ :
قِيَمَةُ الْقِيَمَةِ الْمَرْدَّةُ شَوْهَرُ امْرِئٍ
قِيَمَةُ سیدھا معاملہ۔ الِیَا نَانَهُ
الْقِيَمَةُ۔ دین مستقیم۔ ذَلِكْ دِينُ
الْقِيَمَةِ (یہ اُمت مستقیمہ کا دین ہے)
الْقَائِمَةُ۔ فاعل ج قَوْمٌ وَ قِيَمَةُ
وَقَوْمٌ وَ قِيَمٌ وَ قِيَمَةٌ
قِيَمٌ قَائِمٌ السَّيْفُ تلوار کا
قبسہ قَائِمُ الْمَاءِ۔ وہ اونچی ٹمکی
یا عمارت جہاں سے پانی تقسیم ہوتا ہے

میزاب۔
الْقَائِمَةُ مَقَامٌ۔ ارباب سیاست کے
نزدیک۔ اسسٹنٹ کمشنر۔ ج:
قَوْمُ الْمَقَامَاتِ۔

الْقَائِمَةُ مَوْنٌ قَائِمٌ ج قَائِمَاتُ
وَقَوْمٌ قَائِمَةُ السَّيْفِ تلوار
کا قبضہ۔ قَائِمَةُ الدَّائِمَةِ۔
چوپایہ کی ٹانگ قَائِمَةُ الْحَوَاتِ
اَو السَّرِيحِ کھانے کی میر کا یا تخت
کا پایہ ج: قَوْمٌ قَائِمَةُ
کتاب کا ورق۔ فہرست اَلْعَيْنُ
الْقَائِمَةُ وہ آنکھ جس کی بنیائی زائل
ہو گئی ہو مگر آنکھ علیٰ حالہ قائم ہو۔

قَوْمِيَّةُ الْأَمْرِ۔ معاہدہ کا مدار قَوْمِيَّةُ
الْإِنْسَانِ وَقَوْمِيَّتُهُ۔ آدمی کا قد
الْقَوْمُ امْرُؤٌ خوبصورت قد والا۔ معاملہ کا ذمہ
دار و کفیل۔ معاملہ کی ذمہ داری کو پورا
کرنے پر قادر۔ امیر ج: قَوْمُؤُونُ
الْقَوْمِيَّةُ۔ معتدل۔ اچھے قد والا ج

قِيَامٌ
الْقِيَامَةُ وَقَالِ الْقِيَامُ۔ وہ ذات جس
کی ابتداء نہ ہو۔ وہ ذات جو خود بخود
قائم ہو۔ یہ دونوں باری تعالیٰ کے نام ہیں
الْأَقْوَمُ۔ افعِلْ التَّفْصِيلُ بولا جاتا ہے

قُلَانٌ أَقْوَمُ كَلَامًا مِّنْ قُلَانٍ
(قُلَانِ شَخْصِ فُلَانٍ سے زیادہ سیدھی
بات کہتا ہے۔)

الْمَقَامُ۔ دونوں قدموں کی جگہ جہاں
قدم رکھ کر کھڑے ہوں۔ جائے قیام
مرتبہ ج مقامات۔

الْمَقَامُ۔ ٹھہرائہ۔ ٹھہرنے کی جگہ یا وقت
الْمَقَامَةُ۔ مجلس سرداری لوگوں کی
جماعت و خطبہ یا وعظ یا روایت
جو لوگوں کے اجتماع میں بیان کیا جائے
ج مقامات۔ اسی سے بنایا گیا ہے
الْمَقَامَاتُ الْحَرِيرِيَّةُ۔ جواب
کی مشہور کتاب ہے۔

الْمَقَامُ۔ ہل کی وہ کڑی جو کسان ہل
چلاتے وقت اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے
الْمَقَامَةُ۔ اقامت۔ لوگوں کی جماعت
جائے قیام۔

الْمُقِيمُ۔ فاعل۔ هَذَا اَمْرٌ مُّقِيمٌ
مُقِيمٌ یہ معاملہ پریشان کن ہے
تَقْوَنَ الرَّجُلُ کسی کو برا بھلا کہنا۔
الْقَوْنَةُ مِنَ الْحَيِّدِ اَوِ الْغَاسِ
لوہے یا تانبہ کا وہ کڑا جس سے
پیرنگا یا جاتا ہے ج قَوْنٌ

الْقَانُ۔ ایک درخت کا نام
الْقَاوُونُ۔ ایک قسم کی کڑی۔
قَوَّةٌ قَقْوِيَّةٌ الرَّجُلُ۔ چنچا پکارنا
الْقَصِيَّةُ؛ شکار کو کسی جگہ کی طرف

گھیرنا۔
تَقَادُّهُ الرِّجَالُ۔ دو آدمیوں کا چنچنا
اور ایک دوسرے کو پہچانا۔
اسْتَقْوَاهُ۔ شکار کو گھیرنے کے
لئے کسی کو کہنا۔

اَلِیْقَدَ۔ اطاعت کرنا۔ اَلِیْقَدَ۔ اَلِیْقَدَ
لِیْقَدَ (اس کو گھبراہٹ)
اَلِیْقَدَ دِاسْتَقَدَ۔ اطاعت کرنا

یہ دونوں لفظ آؤقہ۔ اور اِسْتَوْقَمَ
الْقَا۔ اطاعت۔ جاہ و مرتبہ خوشحالی
مَالَتْ عَلَى قَا (سجھ کر گھبرا کر کوئی
غلبہ و قدرت نہیں ہے)۔

الْقَاهِجُ۔ خوش حال۔
قَوِيٌّ یَقْوِي رَسًا قُوَّةٌ طَاقَتْ دَرَبَنَا
عَلَى الْأَمْرِ۔ کسی کام کی طاقت و قدرت
رکھنا۔ قَوِيٌّ سَخَتْ بِهَوَاكَ بَرَاءُ الْمَلِكِ
بارش رکنا۔ قَوِيَّتٌ قِيَادٌ وَ قَوَايِئُ
الدَّارِ۔ گھر کا خالی ہونا۔

قَوِيٌّ الرَّجُلُ اَوِ الشَّيْءُ طَاقَتْ رُبَانًا۔
قَادِي مَقَاوَاةً الرَّجُلُ قُوَّتِیْ
ناب آنا۔ قَادِي قَفْقَیَّتُهُ
(اُس نے مجھ پر غلبہ کی کوشش کی وہیں اُس
پر غالب آیا)۔

أَقْوَى اِحْوَاةً۔ محتاج ہونا۔ چیل میل
میں اُترنا۔ مالدار ہونا۔ قوی باور کا
مالک ہونا۔ أَقْوَى الدَّارِ۔ گھر
کا ساکنین سے خالی ہونا۔ أَقْوَى
الْقَوْمِ۔ نادارہ ختم ہونا۔ الرَّجُلُ
بِیْوَكَ اَوِ کھانے کے لئے کوئی چیز نہ ہونا
أَقْوَى الْبَقْعَةِ۔ جگہ کو خالی کرنا
أَقْوَى الشَّيْءِ۔ شے کے قافیہ کو
مختلف کرنا یعنی کسی کو رفع دینا
اور کسی کو جرد دینا۔ الرَّجُلُ۔ رستی
کے کچھ حصہ کو دوسرے حصہ سے مٹا کر نا
تَقْوَسِي۔ شدید و مضبوط ہونا۔ قوی ہونا

تَقَادُّی تَقَادُّیًا۔ جھوکا نہ کر رات
گزارنا۔ الْقَوْمُ الْمَسَاعِ بَيْنَهُمْ
قوم کا کسی سامان کی قیمت کو بڑھانا
حتیٰ کہ انتہائی قیمت تک پہنچانا۔

الْقَوْمُ الدَّلْوُ۔ قوم کا دُلہ سے منہ
لگا کر ممکنہ مقدار کو پینا۔
اِقْتَوَلَى اِقْتَوَاعًا النَّعَ۔ سامان کو
قیمت بڑھانے کے بعد خریدنا۔

ق

(یہ اُس سے زیادہ تلخ ہے)
الْقَبِيْرُاطُ - ایک وزن ہے۔

قَبِيْرٌ وَاِنْ - مغرب میں ایک شہر کا نام ہے
الْقَبِيْرُ وَاِنْ - گھوڑوں کا گروہ - لشکر
کا بڑا حصہ - قافلہ - کارواں ج:

قَبِيْرٌ وَاَنَا (رجل ہے) -
قَاسٌ يَقِيْسُ (من) قَيْسًا وَقِيَّاسًا
اٹھکا کر اور اسے چننا - تیر چلنا -
بھوکا ہونا قَاسٌ کسی سے سابق ہونا
قَيْسًا الطَّبِيْبُ الْجَوَّاحَةُ طَبِيْب
کا زخم کی گہرائی ناپنا - فاعل - قَاسٌ
الشَّيْءُ بِغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ وَآلِيهِ
کسی چیز کے نمونہ پر اندازہ کرنا -

قَاسٌ قِيَّاسًا وَمُقَايَسَةً بَيْنَ
الْأَمْوَالِ بَيْنَ دَوْنِ جِزْوِیْنِ كَإِذَا
موازہ کرنا الشَّيْءُ بِكَذَا أَوْ إِلَى كَذَا
کسی چیز کی مثال سے اندازہ کرنا -
الرَّجُلُ: ایک دوسرے کے مقابلے میں
اندازہ کرنا قَاسًا إِلَى كَذَا کسی
چیز میں سبقت لے جانا -

تَقْيِيسٌ - قبیلہ قیس غیلان کے مشابہ
ہونا - قبیلہ قیس کی طرف منسوب ہونا
قبیلہ قیس سے تعلق رکھنا خواہ حلیف
ہونے کے سبب سے یا پردوس کے سبب
سے یا ولاد کے سبب سے -

اِنْقَاسٌ - اندازہ میں آنا -
اِقْتِاسٌ الشَّيْءُ کسی چیز کا اندازہ کرنا
اِقْتِاسٌ بِأَبْنِهِ - اپنے باپ کے نقش
قدم پر چلنا -

الْقَاسُ وَالْقَيْسُ - مقدار - اندازہ
بَيْنَهُمَا قَاسٌ رُفْحٌ أَوْ قَيْسٌ رُفْحٌ
ان دونوں کے درمیان ایک نیزہ کی
مقدار فاصلہ ہے -

الْقِيَّاسُ - مصدر هَذَا قِيَّاسٌ ذَكَ
(یہ اُس کے مشابہ ہے) -

الْقِيَّاسُ فِي الْمَنْطِقِ - جذقیوں
سے مرکب قول جس کو تسلیم کرنے کی چیز
سے ایک اور قول لا محالہ تسلیم کرنا پڑے
الْقِيَّاسُ سَمِيٌّ - جو چیز قیاس یا تقاضائے
قیاس کے مطابق ہو -

الْقِيَّاسُ - بہت قیاس کرنے والا -
الْقِيَّاسُ - مقدار، پیمانہ وہ اندازہ
جس کے ذریعہ دوسری چیزوں کا اندازہ
اور تخمینہ کیا جائے ج مَقَايِيسُ
الْقَيْسَرِيُّ - بڑا امین الِإِدْبِ عَظِيمُ الْجِدَّةِ
اونٹ - ج - قِيَّاسٌ وَقِيَّاسَةٌ
قِيَّاسًا رَيْنًا قِيَّاسِيَّةً کی تحریف
ہے - کئی شہروں کا نام ہے جو شان
رُوم کے نام پر رکھے گئے ہیں - ان میں
سے زیادہ مشہور قِيَّاسِيَّةٌ -

فَلَسْطِينُ اور قِيَّاسِيَّةٌ فیلدس
اور قیساریہ کیا دو کیا ہیں -
قَاصَتْ تَقْيِصُ (من) قِيَّاسًا اِلَيْهِ
دانت کا جڑ سے گرنا - قَاصُ الْبَطْنِ
پیٹ کا متحرک ہونا -

اِنْقَاصٌ وَتَقْيِصٌ اِنْقِاطٌ - دیوار کا
بھٹنا اور گرنا - اِنْقِطَاعٌ وَارْطُ
کا گرنا یا لمبائی میں چر جانا تَقْيِصَتْ
الْبُتْرَةُ کُنْزٍ کا دھا جانا -
اِنْقَاصَتْ الْبُتْرَةُ کُنْزٍ میں آنا
زیادہ پانی ہونا کہ دھانے کے
قریب ہو جائے -

قَاصٌ يَقْيِصُ قِيْفًا - الشَّيْءُ کسی چیز
کو چیرنا - چھاڑنا - الشَّيْءُ چرنا -
چھٹنا - اَلشَّيْءُ دانت کا ہٹنا -
الشَّيْءُ بِالْشَّيْءِ - ایک چیز کو کسی چیز
کے ساتھ تشبیہ دینا - اَلشَّيْءُ مِمَّنْ
الشَّيْءِ - ایک چیز کو دوسری کے بدلہ
میں لینا -

قِيْصَتْ الْبُتْرَةُ کُنْزٍ میں بہت پانی

ہوتا -

تَقْيِصَ اللّٰهُ لَكَ كَدًا - تمادینا نا -
مقرر کرنا اللّٰهُ فَلَإِنَّا لَنُفْلِكَنَّ
خدا کا کسی کو کسی کے پاس لانا -

قَاقِيصٌ قِيَّاسًا وَمُقَايَسَةً فَلَإِنَّا
بِكَذَا أَلَيْسَ سَمِيٌّ کوئی چیز تبدیل کرنا -
تَقْيِصَتْ الْبَيْضَةُ - اندے کا پھوٹ
جانا - تَقْيِصُ كَذَا کسی کے
لئے مقرر ہونا اور سبب بننا تَقْيِصُ
أَبَاكَ - باپ کے مشابہ ہونا دَانْقَاصُ
الْحَارِطُ - دیوار کا گرنا منہم ہونا
اِنْقَاصَتْ الرُّكْبَةُ أَوِ الْهَيْئَةُ
طول میں چر جانا - لمبائی میں چھٹ جانا
تَقَايَافٌ تَقَايُصًا الرَّجُلَانِ ایک
دوسرے سے تبدیل و عوض کرنا -

اِقْتِاصٌ الشَّيْءُ کوئی چیز جڑ سے اٹھانا
الْقِيْفُ - مصدر - اندے کا خشک
چھٹنا وَالْقِيَّاسُ مَسَاوِي وَمَقِيْمٌ
هَذَا الْقِيْفُ أَوْ قِيَّاسٌ بِكَذَا أَرِ
اس کے مساوی و مماثل ہے) هَمَّا
قِيْصَانِ (دو دونوں ایک جیسے ہیں) -
الْقِيْصَةُ - بڑی کا چھوٹا ٹکڑا کر چ ج

قِيْصٌ -
الْقِيْصُ وَالْقِيْصَةُ - وہ پتھر جس کو
گرم کر کے بکری کی لکڑی کو داغ دیتے ہیں
الْقِيْصُ - اندوں کے چھکوں کی جگہ پتھر
مَقِيْصَةٌ - چھوٹا ہوا اندا -

قَاقِ يَقِيْطُ (من) قِيْصًا اَلْيَوْمَ - دن کا
شدید گرم ہونا قِيْطٌ لَقِيْطٌ وَاقْطَاطٌ
اَلْقَوْمُ بِالْمَكَانِ - قوم کا موسم گرمیاں
کسی جگہ قیوم رہنا قِيْطُ اَلْقَوْمِ پر گرمی کی بات
پڑنا قِيْطُ الشَّيْءِ کسی چیز کا گرمی
کے موسم کے لئے کافی ہونا -

قَاقِطٌ قِيَّاسًا وَمُقَايَظَةً کسی کے ساتھ
گرمی کا موسم گزارنا اگر گرمی کی مدت بھر کا





کے ساتھ معاملہ کرنا۔
 الْقَيْطُ: سخت گرمی۔ سخت گرمی کا وقفہ۔ ج:
 أَقْيَاطٌ وَفَيْطٌ۔
 الْقَائِطُ وَالْقَيْطُ: سخت گرم یومٌ قَائِطٌ
 سخت گرم دن۔ قَيْطٌ قَائِطٌ: انتہائی
 شدید گرمی۔
 الْقَيْطِيُّ: گرمی کے موسم میں پیدا ہونے والا
 الْقَائِطُ وَالْمَقِيطُ وَالْمَقِيطُ: وہ
 جگہ جہاں موسم گرما کے وقت قیام کیا
 جائے۔
 الْمَقِيطَةُ: موسم گرما تک سرسبز رہنے والی
 سبزی۔
 قَاعٌ يَقِيعُ قَيْعًا: الْخَزِيرَةُ: سور کا چلانا
 قَيْفٌ وَتَقِيفٌ: اثر۔ نشان کی
 تفتیش کرنا۔
 الْقَيَافَةُ: نشانات سے پتہ لگانا۔ لُزْغٌ: گانا
 قَائِمٌ يَقِيعُ قَيْعًا: الدَّجَاجَةُ: مرغی کا کڑکھانا۔
 الْقَيْقُ: احمق۔ کم عقل۔ ایک پرندہ کا نام جو
 کبوتر کے برابر ہوتا ہے اس کے دونوں بازو
 پر مختلف رنگ کی کیریں ہوتی ہیں اور وہ
 کالی ہوتی ہے یہ جانور بہت بولتا ہے اور
 اس کو ابُو ذَرَّتِی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے
 قَيْقِيَّةُ الْبَيْضَةِ: اندے کے بالائی
 سخت چھلکے کے نیچے والا باریک پردہ۔
 الْقَيْقَاةُ وَالْقَيْقَاءَةُ: موٹی سطح والی
 سخت زمین ج: قَوَاقٍ وَقِيَاقٍ وَتَقِيقٌ
 الْقَيْقَبُ: ایک درخت جس کو فارسی میں آزاد
 درخت کہا جاتا ہے گھوڑے کی زین کا
 تہہ۔ رگام کا وہ حصہ جس کے درمیان میں منہ
 میں رہنے والا ہوتا ہے وَالْقَيْقَبَانِ
 گھوڑے کی زین۔ بکڑی جس سے زین
 بنائی جاتی ہے قَالَ يَقِيلُ رُضًى قَيْلًا
 وَقَائِلَةً وَقِيلُوا لَهُ وَمَقَالًا وَمَقِيلًا
 دوپہر میں سونا قیلو کرنا۔ قَيْلًا دودھ

دوہنا اور دوپہر کے وقت پینا۔
 قَيْلًا: کسی کو دوپہر کے وقت پلانا
 قَائِلًا: معاوضہ دینا۔ تبادلہ کرنا۔
 أَقَالَهُ إِذَا لَبَّيْتُ الْبَيْعَ: بیع کو فسخ کرنا
 اللَّهُ عَزَّ وَتَعَالَى: گر پٹنے کے بعد خدا
 کا اٹھانا۔ غلطی سے درگزر کرنا قَالَ
 الْإِدِيلُ: دوپہر کے وقت اونٹوں کو سیر کھانا
 تَقِيلُ: دوپہر کے وقت سونا۔ تَقِيلُ
 آیا۔ باپ کے مشا پر ہونا۔ الْمَاءُ: پانی
 پانی کا جمع ہونا۔ تَقِيلْتُ الْإِدِيلُ
 اونٹوں کا دوپہر میں پانی پینا۔
 تَقَالِ الرَّجُلَانِ الْبَيْعَ: بیع کر طے
 کرنے کے بعد فسخ کرنا۔
 اِقْتَالَ شَيْعًا بَيْعًا: ایک چیز کو دوسری
 چیز سے تبدیل کرنا۔
 اِسْتَقَالَ اِسْتَقَالَ الْبَيْعَ: کسی
 سے بیع کو فسخ کرنے کا مطالبہ کرنا۔
 اِسْتَقَالَ عَشْرَتَهُ: کسی سے کہنا کہ
 اس کی خطا سے درگزر کرے۔ گرے ہوئے
 کو اٹھانے کے لئے کہنا۔
 الْقَيْلُ: سردار۔ حیر خاندان کے بادشاہوں
 میں سے کوئی بادشاہ۔ وہ اونٹنی جس کو
 دوپہر میں دولا جائے۔
 الْقَيْلُ وَالْقَيْلُ: دودھ جو
 دوپہر کو پیا جائے۔
 الْقَيْكَةُ وَالْقَيْكَةُ: وہ اونٹنی جس
 کو دوپہر میں دولا جائے۔
 الْقَائِلُ: دوپہر میں سونے والا ج:
 قَيْلٌ وَقَيْلٌ وَقَيْلٌ
 الْقَائِلَةُ: مؤنث قائل۔ دوپہر کا وقت
 الْقَائِلَةُ وَالْقَيْلُ: دوپہر میں سونا
 دوپہر میں آرام کرنا خواہ نیند نہ آئے۔
 رَجُلٌ قَيْلٌ
 اَلَا قَالَهُ مَصْدَرٌ: بیع کو فسخ کرنا
 الْقَيْلُ: مصدر۔ قیلو کرنے کی جگہ۔

دوپہر میں سونا۔ دوپہر میں آرام کرنا۔
 الْقَيْلُ: دوپہر میں دوہے جانے کے لئے
 برطارتن دَوَحَةً قَيْلًا: وہ درخت
 جس کے نیچے بہت زیادہ قیلو کیا جاتا
 قَانَ لَيْقِينَ قَيْنًا: الْخَزِيرَةُ: سور کا چلانا
 و درست کرنا قَانَ الْإِنَاءَ: برتن
 کی اصلاح و مرمت کرنا الشَّيْءَ: جمع
 کرنا۔ طمانا۔ اللَّهُ فَلَانًا عَلَى كَذَا
 کسی خاص وضع پر پیدا کرنا قَانَتَا الْمَرْءُ
 الْمَرْءُ: ایک عورت کا دوسری عورت
 کے لئے بناؤ سنگھار کرنا۔
 قَانَ يَقِينُ قَيْنًا أَوْ قَيْنَةً: لولہ ہونا
 لولہ کا کام کرنا۔
 قَيْنَتُهُ: زیب و زینت کرنا۔
 تَقَيْنَ: مرین ہونا۔ التَّبَتُّ: نباتات
 کا خوبصورت ہونا۔
 اِقْتَانَ اِقْتَيْنًا: التَّبَتُّ نباتات
 کا خوبصورت ہونا۔ التَّوَصُّمُ: بارغ
 کا سرسبز و شاداب ہونا۔ الرِّجْلُ: زیب
 و زینت والا ہونا۔
 آلَةُ اَنَ: ایک درخت ہے جس سے کمائیں
 بنتی ہیں۔ وَاَصْرٌ قَائِمٌ
 آلَةُ اَنَ: قِيَانٌ: غلام۔ ج قِيُونٌ
 وَأَقْيَانٌ: لولہ۔ ہر کارگر کو بھی
 کہتے ہیں۔
 الْقَيْتَةُ: گانے والی لونڈی کنیز
 نائیں۔ نیاؤ سنگھار کرنے والی۔
 رِيْلُهُ: بڑی کاسب سے نیچے والا
 منکا۔ ج:
 قِيَانٌ
 الْمَقِيَّةُ: مؤنث مُقَيَّةٌ
 زیب و زینت کرنے والی عورت
 بناؤ سنگھار کے فرائض انجام
 دینے والی عورت۔
 ماشطہ۔

ک

ک۔ ۱۔ ضمیر منصوب اور مجرد مخاطب کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے جیسے مَوَلَاکَ۔ کِتَابُکَ۔ وَصَوْرَتُکُمَا و کِتَابُکُمَا۔ وَصَوْرَتُکُمَا و کِتَابُکُمَا۔ ۲۔ حرف جار کبھی تشبیہ کے لیے ہوتا ہے جیسے زَیْدٌ کَا لَاسَدٍ اور کبھی تعلیل کے لیے جیسے اُدْکُرُوا اللہَ کَمَا هَذَا کَحَدِّ اللہِ کو یاد کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ کبھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس صورت میں یہ زائد ہوتا ہے۔ جیسے لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ۔ ۳۔ حرف غیر جار۔ اس صورت میں بھی خطاب کا مفہوم متصور ہوتا ہے۔ اور اسم اشارہ ضمیر منصوب منفصل اور بعض اسماء افعال کے ساتھ آتا ہے جیسے ذَٰلِکَ۔ یَٰذَاکَ۔ رَایَاکَ و رَوَیْدَکَ۔ کَیْتُ یَکْتُبُ (دس) کَآبَا و کَآبَہُ و کَآبَہُ۔ غمگین ہونا۔ شکستہ دل ہونا۔ بری حالت میں ہونا۔ صفت گِیْب و گِیْب۔ مجازاً کہا جاتا ہے اَرْضُ کِیْبَہُ التَّوْبَہِ۔ اَرْضُ التَّوْبَہِ۔ مرد کا غمگین ہونا۔ ہلاکت میں واقع ہونا۔ الرَّجُلُ۔ رنج پہنچانا۔ اِکْتَابَ۔ رنجیدہ ہونا۔ اَلْکَآبَاءُ۔ سخت رنج۔ اِمْرَاۃٌ کَآبَاءُ۔ سخت رنجیدہ عورت۔ کہتے ہیں۔ مَا اَکْبَاۃٌ۔ وہ کس قدر رنجیدہ ہے۔ اَلْمُکْتَبِیۃُ۔ رَمَادُ مُکْتَبِیۃُ۔ سیاہی مائل راکھ۔ کَآجِرُ دَفٍّ کَآجَا الرَّجُلُ۔ زیادہ

بیوقوف ہونا۔

اِدْکَا جَرٌّ نادانی۔ حماقت۔ کَا دَرَفٌ کَا دَا۔ دل شکستہ اور رنجیدہ ہونا۔ غم سے بُرا حال ہونا۔ تَکَا دَرَفٌ و تَکَا دَرَفٌ۔ اَلْاَرْضُ فُلَانًا۔ کام کا مشکل ہو جانا۔ اَلْاَمْرُ۔ کسی کام میں تکلیف اٹھانا۔ اِکْوَا دَرَفٌ۔ الشَّیْخُ بڑھاپے کی وجہ سے رشتہ ہونا۔ اَلْکَا دَاۃُ۔ رنج، سختی، پرہیز، اندھیری رات۔ عَقِبَہُ کَا دَاۃُ و کُوْدُ و پیچیدہ گھاٹی۔ اِکْوَا دَاۃُ۔ رنج یا تھکن کی وجہ سے سانس کی تنگی۔ اَلْکَا سٌ۔ پیالہ (مؤنث)۔ ج۔ کُوْدُسٌ و اَلْکُوْدُسُ و کَا سَاۃٌ و کَا سَاۃٌ۔ کَا سٌ الرَّحْمَۃُ۔ سبزیوں کا غلاف جو پھول کے چاروں طرف ہو۔ اَلْکَا سٌ۔ شراب۔ کَا صَدَ دَفٍّ کَا صَا۔ ذہیل کرنا۔ مغلوب کرنا۔ الشَّیْءُ کسی چیز کا بہت کھانا یا پینا۔ محاورہ ہے کَا صَدَا عِنْدَہُ مِنَ الطَّعَامِ مَا شَبَّہَا۔ ہم نے اس کے پاس جو کچھ چاہا خوب کھایا۔ کَا مَکَا کَا کَا کَا۔ کمزور ہونا۔ بزدل ہونا اور پیچھے ہٹنا۔ اَلْقَوْمُ عَکِبَہُ۔ قوم کا کسی پر جمع ہونا۔ فِی کَلَامِہِ۔ گفتگو میں عاجز ہو جانا اور بات نہ کر سکتا۔ اَلْکَا کَاۃُ۔ بزدلی۔ چور کی بھاگتے وقت کی دوڑ۔ اَلْمُتَکَا کِی دَفٍّ۔ پستہ قد۔ کَا ل دَفٍّ کَا لَو کَا لَہُ و کُوْدَ لَہُ۔

قرض کے بدلہ میں کوئی چیز قرض خریدنا

یا بیچنا۔

اِکْوَا لَ اِکْوَلَا۔ پستہ قد ہونا۔ کَا ن دَفٍّ کَا نَا۔ الرَّجُلُ سخت ہونا۔ کَا نَ۔ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اسم کو نسبت دیتا ہے اور خبر کو رفع۔ یہ ذیل کے معانی میں مستعمل ہے۔ ۱۔ تشبیہ جیسے کَا نَ زَیْدٌ اَلْاَسَدُ۔ گویا زید شیر ہے۔ ۲۔ اس کا اصل اور عام استعمال یہی ہے ۳۔ شک اور گمان جیسے کَا نَ زَیْدٌ اَقْبَحُ۔ شاید زید کھڑا ہے۔ ۴۔ تقریب جیسے کَا نَکَ بِالِشَّتَاءِ مُقْبِلٌ۔ قریب ہے کہ بھارے پاس موسم سرما آئے۔ کَا ی دَفٍّ ی کَا ی۔ کَا یَا۔ الرَّجُلُ۔ گفتگو سے تکلیف پہنچانا۔ اَلْکَا ی عَنَدَہُ۔ ناپسند کرنا۔ کَا یُنَ یا کَا یُنَ۔ یہ اسم کاف تشبیہ آتی ہے مرکب ہے۔ کُھ خبر یہ کی طرح عام طور پر کثرت اور بہت کے معنوں میں آتا ہے جیسے کَا یُنَ مِنْ رَجُلٍ۔ یا کَا یُنَ رَجُلًا دَرِیۡتُ۔ میں نے بہت سے آدمی دیکھے۔ یہ لفظ بہت کم استفہام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے حضرت ابن ابی ابن کعب سے حضرت مسعود نے پوچھا تھا۔ کَا یُنَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْاَحْزَابِ۔ تم کتنی مرتبہ سورہ احزاب پڑھتے ہو۔ انھوں نے جواب دیا تہتر مرتبہ۔ کَبَّ (ن) کَبَّ۔ اِلَیْنَا۔ برتن کو اوندھا کر دینا۔ الرَّجُلُ عَلٰی وَجْہِہِ یَجْپَاۡ



دستہ پوری، سھیلی میں پکڑا جا سکے۔
 الْکَبْدُ پیٹ کا بڑا ہونا۔ مشقت۔ ہوا۔
 سختی۔ ریت کا درمیانی حصہ۔
 الْکَبْدَةُ کبد کا اسم مرہ۔ محبت کا مرہ۔
 الْکَبَادُ درد جگر۔ الْکَبَادُ چکو ترہ
 (دعائی زبان میں)
 الْکَبْدُ ایک قسم کا پرندہ۔ درمیان سے
 موٹا، آہستہ سے چلنے والا۔ بڑے
 جگر والا۔ وہ شخص جس کے جگر کی
 جگہ بلند ہو۔ مؤنث کَبْدَاءُ۔ ج۔
 کَبْدُ
 الْکَابِدُ (ف)، مشقت برداشت کرنا۔
 کَبْرُوس، کَبْرَا و مَكْبَرَا۔ فِي الْمَسِينِ
 عمر رسیدہ ہونا۔
 کَبْرُون، کَبْرَا۔ فَلَانًا بِالْمَسِينِ کسی
 سے عمر میں بڑا ہونا۔
 کَبْرُ کَبْرَا و کَبَارَةً۔ فِي الْقَدْرِ مرتبہ
 میں بڑا ہونا۔
 کَبْرُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ کام کا دشوار ہونا۔
 سخت ہونا۔ بھاری ہونا۔
 کَوْبَرُ الرَّجُلِ فِي مَالِهِ مال کا ظلم اور
 زبردستی سے لے جانا۔ صفت
 مَکَا بِرُ عَلَيْهِ۔
 کَبْرُ تَكْبَرًا و کَبَارًا۔ اللہ اکبر کرنا۔
 الشیء کسی چیز کو بڑا بنانا۔
 تَكْبَرًا۔ دشمنی رکھنا۔ مخالفت کرنا۔ غلبہ
 حاصل کرنا۔ عَلَى حَقِّهِ۔ حق کا انکار
 کرنا۔ الْکَبْرُ الْأَمْرُ کام کو بڑا سمجھنا
 ۔ الرَّجُلُ بڑا شمار کرنا۔ تعظیم کرنا۔
 تَكْبَرَدَ تَكْبَرًا۔ تکبر کرنا۔ مغرور ہونا۔
 تَكْبَرُ الرَّجُلُ اپنے آپ کو بڑا اور
 بلند مرتبہ ظاہر کرنا۔
 اَسْتَكْبَرُ۔ تکبر کرنا۔ الْأَمْرُ کام کو
 بڑا سمجھنا۔
 الْکَبْرُ تَكْبَرًا بڑا گناہ۔

الْکَبْرُ وَالْکُبْرُ کسی چیز کا بڑا حصہ۔
 شرافت و بلندی۔
 الْکَبْرُ کَفْر و شرک۔
 الْکَبْرُ وَالْکِبْرَةُ وَالْکِبْرَةُ بڑھاپا۔
 الْکِبْرَةُ گناہ عظیم کہا جاتا ہے هُوَ
 کَبْرُهُمْ و کِبْرُهُمْ و کَبْرُهُمْ
 و کِبْرُهُمْ و کِبْرُهُمْ و کِبْرُهُمْ
 و کِبْرُهُمْ وہ ان کا بڑا بوڑھا
 ہے یا نسب میں ان سے زیادہ
 قریب ہے۔ "فَلَانٌ کِبْرَةٌ و کِبْرٌ
 اَبِيهِ" فلاں اپنے باپ کی اولاد میں
 آخر ہے۔ اس میں واحد، جمع، مذکر،
 مؤنث سب برابر ہیں۔
 الْکَبْرُ ڈھول (دخیل) ج۔ کَبَارٌ و
 الْکَبَارُ ایک درخت کا نام۔
 الْکِبْرُ بزرگی، عظمت، غرور۔
 الْکَبَارُ و الْکَبَارُ و الْکَبَارُ بڑا۔
 الْکَبَارُ بلند مرتبہ، سردار، مؤثر اعلیٰ۔
 الْکِبَارُ بڑا ج۔ کَبَارٌ و کَبْرَاءُ۔
 معلم، رئیس، اللہ تعالیٰ کے اسمائے
 مبارکہ میں سے ہے۔
 الْکِبْرَةُ کبر کا مؤنث۔ بڑا گناہ۔ ج
 کِبْرَاةٌ و کَبَارٌ۔
 الْکَبْرُ اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے الْکَبْرُ
 وَالْأَصْغَرُ یعنی کبیر و صغیر۔ ج۔
 الْکَبْرُ و الْکَبْرُونَ۔ الْکَبْرُ
 الْقَوْمُ قوم کے شریف لوگ۔
 کہا جاتا ہے۔ فَلَانٌ الْکَبْرُ التَّحَارِ
 فلاں میرے پاس دن چڑھے آیا۔
 الْکَبْرُ و الْکَبْرُ ایک میٹھی چیز جو
 خشک حلوائے کی مانند بہت زیادہ
 میٹھی نہیں ہوتی۔ موم اور شہد کے
 علاوہ ہے جسے موم کی مکھی موم کی
 طرح جمع کرتی ہے۔
 الْکَبْرُی۔ اکبر کا مؤنث ہے۔ ج۔ کَبْرُ

و کَبْرَات۔ کہا جاتا ہے۔ "هَذِهِ
 الْجَارِيَةُ مِنْ کَبْرَى بَنَاتِ
 فَلَانٍ" یہ لڑکی فلاں کی بڑی لڑکیوں
 میں سے ہے۔
 الْمَكْبَرُ و الْمَكْبَرَةُ و الْمَكْبَرَةُ
 عمر کی بڑائی۔ الْمَكْبَرَاءُ اسم جمع
 بمعنی کَبْرَاء۔ کَبْرَتُ الشیء کسی
 چیز پر گندھک ملنا۔
 الْکَبْرِيَّةُ گندھک۔ سُرْخ ہونا۔ سُرْخ
 یا قوت۔ محاورہ ہے "ذَهَبَ الْکَبْرِيَّةُ
 وَفِضَّةُ الْکَبْرِيَّةِ" خالص سونا
 چاندی۔
 کَبْسُ رَضٍ کَبْسًا۔ عَلَى الشیء دبانا
 اور بھیجننا۔ الْبَسْرُ کنویں کو مٹی سے
 پاٹنا۔ رَأْسُهُ فِي الثَّوْبِ سر کو
 کپڑے میں داخل کرنا۔ الْقَوْمُ ذَا رَأْ
 گھر پر اچانک حملہ کرنا۔ الشَّيْءُ
 يَبْسُومُ سال میں ایک دن زیادہ کرنا
 النَّاصِيَةُ جَبْرُهُتُهُ پیشانی کو
 چھال لینا۔
 کَبْسُ رَسٍ کَبْسًا۔ سر کا بڑا ہونا۔ صفت
 الْکَبْسُ۔ مؤنث کَبْسَاءُ۔ ج۔
 کَبْسُ
 کَبْسُ الْجَسَدِ جسم کو مٹی سے مل
 کر نرم کرنا۔ عَلَى الشیء کسی چیز میں
 گھسن جانا۔
 تَكْبَسُ و تَكْبَسُ۔ الْغَمُّ وَالْبَسْرُ
 نہریا کنویں کا مٹی سے بھر جانا۔
 تَكْبَسُ الرَّجُلُ سر کو گریبان میں داخل
 کرنا۔ عَلَى الشیء گھس پڑنا۔
 الْکَبْسُ کنواں پاٹنے کی مٹی۔ بڑا سر۔
 پہاڑ کی جڑ میں غار۔ خزانہ، اصل۔
 مٹی کا گھر۔
 الْکَبْسَةُ کھجوروں کا گچھا۔ ج۔ کَبَائِسُ
 جَبَالُ کَبْسٍ و مَكْبَسٍ سخت پہاڑ۔



الاصابع سحت اور مضبوط انگلیوں
والامرد مؤنث مکتوبۃ۔
کدایکبواکبواکبوا۔ یوجیه منہ
کے بل گرنا۔ التؤد جتھاق سے
آگ نہ نکلتا۔

کبت الثار۔ آگ کی چنگاری کا رکھ میں
پوشیدہ ہونا۔ کبت الثور۔ روشنی
کم ہونا۔ التبت۔ نباتات کا مڑھانا
۔ العبار۔ غبار کا اوپر چڑھنا۔
الجھم۔ چنگاری کا بلند ہونا۔ کون
الصبحر أو الشمس۔ صبح یا آفتاب
کا تاریک ہونا۔ السهم۔ تیر کا
نشانہ پر نہ گنا۔ ماء فی الرعاء
برتن میں پانی ڈالنا۔ الشی۔ کسی چیز
کو صاف کرنا۔ الکوس۔ کوزہ سے
گرا دینا۔ البیت۔ گھر میں جھاڑو
دینا۔

کبتی تکبۃ۔ الثار۔ آگ پر رکھ
ڈالنا۔ ثویۃ یا لکبا۔ کپڑے کو
عود بخور سے دھونی دینا۔
الکبی الکباء۔ التؤد جتھاق سے
آگ نہ نکلتا جتھاق سے دھواں نکلتا۔
الکبی وجھۃ۔ چہرہ تبدیل کرنا۔
کابا مکاباۃ۔ السیف۔ تلوار کا میان
میں رکھنا۔

تکبتی۔ علی المیم۔ عودان پر کپڑے
ڈالنا۔
الکتبی بالعود۔ عود سے دھونی دینا۔
انکبی۔ منہ کے بل گرنا۔
الکباء۔ بلند۔

الکباء والکبی۔ کباء۔ الکبۃ۔ جھ
کبونی۔ کوڑا کرکٹ۔

الکباء۔ زمین پر پڑی ہوئی متفرق چیزیں
پانی کے چاروں طرف سخت جھاگ۔
الکباء۔ دھونی دینے کی عود۔ ج۔ کبی۔

الکبۃ۔ کبا کا اسم مرہ۔ تیرگی۔
الکبۃ۔ دھونی دینے کی انگلی۔
الکابی۔ نا۔ محاورہ ہے۔ فلان کابی
التؤد۔ فلان بہت رکھ والا ہے
یہ اس بات کا کنایہ ہے کہ وہ مہمان
نواز ہے۔ الفحص الکابی۔
بجھا ہوا کوئد جو آگ سے خالی ہو۔
رجل کابی۔ جو بھلائی کی طرف لانے
کے باوجود متوجہ نہ ہو۔ عبار کابی
بہت غبار۔

الکابیۃ۔ کابی کا مؤنث۔ جھاگ۔ نار
کابیۃ۔ رکھ میں دلی ہوئی آگ۔
کتۃ دن گٹا۔ شمار کرنا۔ کہا جاتا ہے۔
آنا یا بجیش مایکت۔ وہ
ہمارے اوپریشمار فوج لے کر آیا۔
کت و آکت و آکت۔ الکلام فی
أذنیہ کان میں چپکے چپکے کرنا۔
کت دن کیتنا۔ آہستہ آہستہ چلنا۔
کت دن گٹا۔ البعیر۔ اونٹ کا آہستہ
آہستہ چلنا۔ بڑبڑانا۔ کتت۔
القدر۔ ہانڈی کا ابلنا۔ کت
الرجل۔ مرد کو ذیل کرنا۔ رنجیدہ کرنا۔
اکتت الحدیث۔ بات سننا۔
تکات الناس۔ لوگوں کا شور مچانا
جمع ہونا۔

الکت۔ مہم۔ کم گوشت (مرد یا عورت) ڈالنا۔
الکت۔ کت کا اسم مرہ۔ زین کی سبزی۔
الکتۃ۔ ردی مال۔
الکتیۃ۔ مہم۔ ہانڈی اور شراب ابلنے
کی آواز۔ بخیل محاورہ ہے۔ رجل
کتیۃ۔ البیدین۔ یعنی بخیل مرد۔
الکتیۃ۔ ایک قسم کا حلہ۔

کت دن۔ کتبا و کتبا و کتبا۔ و
کتباۃ۔ الکتاب۔ لکھا۔ کت
حکیم کذا۔ کسی چیز کے متعلق فیصلہ

کرنا۔ واجب کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ کتب
اللہ علی عبادہ الطاعة و علی
نفسہ الرحمۃ۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندوں کو اطاعت کا حکم دیا ہے
اور اپنی ذات پر رحمت کو ضروری
قرار دیا ہے۔

کتب القیدۃ۔ کتبا۔ مشک کو دہرے
تسموں سے سینا۔

کتب الکتاب۔ لکھنا۔ الوکد۔ بچے کو
لکھنا سکھانا۔ الجود۔ فوج کو
تیار کرنا اور انھیں دستوں میں تقسیم کرنا۔
کاتبۃ۔ کتباۃ۔ خط و کتابت کرنا۔
ساتھ مل کر لکھنا۔

کاتب العبد۔ غلام کو مال معین کے ادا
کرنے کی شرط پر آزاد کرنے کا معاہدہ
کرنا۔

الکتبۃ۔ لکھنا سکھانا۔ اسے لکھنے والا پانا۔
القصیدۃ۔ قصیدہ لکھنا۔
القربۃ۔ مشک کا باندھنا۔

تکتب الرجل۔ کپڑے سمیٹ کر ہوشیار
رہنا۔

تکتب لکنا۔ فوج کے دستوں کا
جمع ہونا۔

تکاتب۔ القوم۔ ایک دوسرے سے
خط و کتابت کرنا۔

کتب الکتاب۔ لکھنا۔ املا کرنا۔ لکھنا۔
لکھنے کی درخواست کرنا۔ لکتب
القربۃ۔ مشک کو دہرے تسمے
سے سینا۔ بطنۃ۔ بند ہونا۔

الرجل۔ رجسٹ میں اپنا نام لکھنا۔
اسی سے ہے۔ لکتب بعال أو
لعانۃ۔ اس کا نام اور اس کی مالی

امداد لکھی گئی ہے۔
استکتبۃ۔ الشی۔ کسی سے کچھ لکھنے کو
کہنا۔ القصیدۃ۔ نظم املا کرنے کو



کنا۔ الغلام۔ لڑکے کو کاتب بنانا۔
الکُتْبَةُ۔ مصر۔ کتاب کی نقل۔ حالت کسی
حصہ یا رزق کا رجسٹر میں درج ہونا۔
الکُتْبَةُ۔ سینے کا قسمہ۔ مشک وغیرہ کی
درز۔

الکِتَابُ۔ مسم۔ جس میں لکھا جائے۔ خط،
فیضہ۔ فرض۔ حکم، اندازہ۔ ج۔ کُتِبَ
و کُتِبَ۔ والکِتَابُ عَلَى الْإِطْلَاقِ
برودہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل
ہو۔ الہامی کتاب۔ اَھْلُ الْکِتَابِ
وہ لوگ جو الہامی اور آسمانی کتاب
کے پیرو ہوں۔ اُمُّ الْکِتَابِ۔ اصل
کتاب۔ سورہ فاتحہ۔

الکُتُبُیُّ۔ کتابوں کا محافظ۔ کتب فروش۔
الکِتَابِیَّةُ۔ جو لکھا جائے۔ مال معین کے
اداکر نے پر غلام کو آزاد کرنا۔
الکُتِيبُ۔ بندھن سے بندھی ہوئی مشک۔
الکُتِيبَةُ۔ لشکر کا ایک حصہ۔ گھوڑوں کا
ریوڑ۔ ج۔ کُتِيبُ۔

الکَاتِبُ۔ اسم فاعل۔ عالم، منشی، محرر۔
ج۔ کَاتِبُونَ۔ کُتِبَ و کُتِبَ۔
الکِتَابُ۔ ج۔ کَاتِبُ۔ مکتب۔
تعلیم گاہ۔ ج۔ مَکَاتِيبُ۔
المَکْتَبُ۔ تعلیم گاہ۔ لکھنے کی جگہ۔ ج۔
مَکَاتِبُ۔

المُکْتَبُ۔ فاعل۔ مکتب۔ جس کے
پاس کتابیں ہوں۔ جسے لوگ لکھتے
رہتے ہوں۔

المُکْتَبُ۔ کتابت کی تعلیم دینے والا۔
المُکْتَوِبُ۔ مفع۔ خط جو کوئی دوسرے شخص
کے پاس بھیجے۔ ج۔ مَکَاتِيبُ۔
کُتِعَ رَن، کُتِعَا۔ الطَّعَامُ۔ شکم سیر
ہو کر کھانا۔

کُتِعَ الْيُونِیُّ۔ ہوا کا گرد و غبار اڑانا
۔ الدَّبِیُّ الْاَرْضِیُّ۔ کیڑے مکوڑوں کا

نباتات اور درخت وغیرہ کو چاٹ جانا۔
الکُتْدُ و الکُتْدُ۔ دونوں انسانی کندھوں
کے درمیان کا حصہ۔ ج۔ اُکْتُادُ و
کُتُوْدُ۔ کہا جاتا ہے "خَرَجُوا
عَلَيْنَا اُکْتُادًا و اُکْتُادًا"۔ وہ
ہمارے خلاف گروہ درگروہ ہو کر
نکلے۔

الاکُتْدُ۔ وہ شخص جس کے کندھوں کا
درمیان حصہ ابھرا ہوا ہو۔

الکُتْرُ و الکُتْرُ و الکُتْرُ و الکُتْرُ۔
بلند کوبان۔

الکُتْرُ۔ بلندی، عمارت، اندازہ، چھوٹا۔
ہودہ۔ ہر چیز کا درمیانی حصہ۔

الکُتْرُ و الکُتْرُ۔ لڑکھڑاہٹ کی چال۔
الکُتْرُ۔ تہہ۔ گنبد۔ کوبان کا ایک ٹکڑا۔
کُتَشَ کُتْشًا۔ لَاحِظًا۔ گمانا۔

کُتِعَ دَس، کُتِعَا۔ سکڑنا۔ لجا ہونا۔
فِي الْعَمَلِ۔ مستعد ہونا۔ کوشش کرنا۔

کُتِعَ رَن، کُتِعَا۔ بلہ۔ لے جانا۔
کُتُوْعَا۔ فِي الْاَرْضِ۔ دور ہونا
اور بھاگنا۔

کُتِعَ الدَّحْجُ۔ گوشت کے ٹکڑے کرنا۔
کَاتِعَةُ اللَّهِ۔ خدا سے تباہ کرے۔

تَنَکَاتِمَ۔ الرَّجُلَانِ۔ ایک دوسرے کا
پیچھا کرنا۔

الکُتْعُ۔ ج۔ کُتْعَانُ و الکُتْعُ۔ ذیل۔
الکُتْعُ۔ تن تنہا۔ اکیلا۔ کہا جاتا ہے

"مَا بَالُكَ اِرْکُتْبِعُ" او کُتَاعُ، یعنی
گھر میں ایک بھی نہیں بچل کُتْبِعُ

پورا سال۔

الکُتْعَةُ۔ ج۔ کُتَاعُ۔ و الکُتْعَةُ۔ ج۔
کُتْعُ۔ و الکُتْعَةُ۔ ج۔ کُتْعُ۔

چھوٹا ڈول۔

کُتِعَ۔ ج۔ کُتِعَا۔ جو مؤنث کی تاکید
میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے۔

"اِشْتَرَيْتُ هَذِهِ الدَّارَ جَمْعًا"
کُتْعَا۔ میں نے اس کے سارے
گھر کو خرید لیا۔ "رَأَيْتُ أَخَوَاتِكَ
جَمْعًا کُتْعَا"۔ میں نے تیری تمام
بہنوں کو دیکھا۔ کُتْعَ وصف اور
عدل کے دو اسباب کی بنا پر غیر منصرف
ہے اور کُتْعَ کو جَمْعَ کے بعد استعمال
کرتے ہیں۔ یہ جَمْعَ کے بغیر تنہا نہیں
آتا۔ کیونکہ یہ اس کا تابع ہے۔

الاکُتْعُ۔ لجا۔ جس کی انگلیاں پھیلی کی
طرف مڑی ہوئی ہوں۔ یہ لفظ اَجْمَعُ
کا تابع بھی ہے۔ اس موقع پر اَجْمَعُ
کے بغیر استعمال نہیں ہوتا۔ کہا جاتا
ہے "رَأَيْتُھُمْ اَجْمَعِیْنِ الْکُتْعِیْنِ"
میں نے ان سب کو دیکھا۔ مؤنث
کُتْعَا۔

الکُتْعَا۔ بوٹری۔ یہ بھی مؤنث کی تاکید کے
لیے جَمْعَا کا تابع ہے۔ مثال۔

"اِشْتَرَيْتُ الدَّارَ جَمْعًا"
کُتْعَا۔ میں نے سارا سا مکان

خرید لیا۔ رَأِیْ مُکْتَعًا۔ متفقہ رائے
یہ محاورہ بھی ہے۔ "جَاءَ مُکْتَعًا و

مُکُوْتَعًا" وہ تیز رفتاری سے آیا۔
کُتِفَ رَضِیْ کُتْفًا و کُتِیفًا۔ آہستہ

چلتا یا کندھا ہلاتے ہوئے چلنا۔ کچادہ
کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے

کے ساتھ باندھنا۔ فِي الْأُمْرِ۔ زمی
کرنا۔ کُتِفَا و کُتِفَا۔ الرَّجُلُ مَرَدٍ

کی مشکیں کنا۔ کندھے پر مارتا۔
السَّرَّحُ بِاللَّدَا بَتَّةً۔ زین کا کندھے

کو زخمی کرنا۔ اِلِئَاءً۔ برتن کو لوہے
وغیرہ کے پتر سے جوڑنا۔ الْأُمْرُ۔

کسی کام کو ناپسند کرنا۔ کُتِفَا و
کُتِفَانًا۔ الطَّائِرُ پَرْدُو کا بازوؤں

کو پیچھے کی طرف ملا کر اڑنا۔



کُتِفَ رَسٌ، کُتِفًا: چوڑے یا بڑے کندھوں والا ہونا۔ کندھے میں درد و تکلیف ہونا۔
 کُتِفَ الرَّجُلُ: مرد کا آہستہ چلنا۔
 کُتِفَ الرَّجُلُ: کسی کی مشکبیں کسنا۔
 کندھوں کے پیچھے ہاتھوں کو باندھنا۔
 الْإِنَاءُ: برتن کو لہجہ و غیر کے پتر سے بھڑنا۔
 اللَّحْمُ وَنَحْوُهُ: گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا۔
 الْقُدْسُ: گھوڑے کا چلنے میں کندھوں کو ملانا۔

تُكْتَفُ: سینے پر ہاتھ باندھنا
 تُكْتَفَى الْحَبِيلُ: گھوڑے کا چلنے میں کندھوں کو اٹھانا۔
 الْكُتْفُ وَالْكُتْفُ وَالْكُتْفُ: شانہ۔
 كُنْدَهَا: مؤنث ہے۔ ج۔ كُتِفَةٌ وَ
 أَكْتُوْا: ضرب المثل ہے "إِنَّهُ لَيَعْلَمُ مِنْ آيِنُ تُوْكَلُ الْكُتْفُ" اس چالاک شخص کے حق میں بولتے ہیں جو معاملات کے داؤ پیچ سے خوب واقف ہو۔
 الْكُتْفُ: کندھے کے درد کی وجہ سے جانوروں کی بنگڑا ہٹ۔ کندھے کی کوتاہی و کمی۔

الْكُتُفُ: کندھے کا درد۔
 الْكُتُفُ: مشکبیں کسنے کی رسی۔ ج۔ الْكُتْفَةُ وَكُتِفٌ وَكُتِفٌ۔
 الْكَاتِفُ: فانا: ناپسند کرنے والا۔
 الْكُتْفُ: مِنَ الْحَبِيلِ وَالْجَمَالِ: وہ گھوڑا یا اونٹ جس کے کندھے میں درد ہو۔ مؤنث کُتْفَاءُ۔ ج۔ كُتِفٌ۔
 الْكُتْفُ مِنَ الْجَمَالِ: وہ مرد جس کے کندھے میں درد ہو۔ مِنَ الْحَبِيلِ وہ گھوڑا جس کے کندھے کے اوپر کا حصہ چوڑا ہو اور اس میں کشادگی ہو۔
 الْكُتِفُ: لہجہ و غیرہ کا چوڑا پتر۔ چوڑی

مَلَوْرٌ: ج۔ كُتِفٌ۔
 الْكُتَيْفَةُ: دروازے کی بلی یا چٹخنی عجات کینہ۔ ج۔ كُتَيْفَةٌ۔
 الْكُتْفَانُ وَالْكُتْفَانُ: ٹڈیاں جو پہلی مرتبہ اڑیں۔ اس کا واحد كُتْفَانَةٌ ہے۔
 الْكُتْفَانُ: وہ جانور جس کا شانہ زین سے زخمی ہو گیا ہو۔
 كُتِفَتِ الرَّجُلُ: بغیر قہقہہ کے ہنسنا۔
 تَكْتِفُكُ: آہستہ آہستہ چلنا۔ چھوٹے چھوٹے قدم سے تیز چلنا۔
 الْكُتْكَاتُ: جلدی جلدی بہت بولنے والا۔
 كُتِلَهُ دَنٌ، كُتِلًا: تید کرنا۔ باز رکھنا۔
 كُتِلَ (رَسٌ) كُتِلًا: چٹنا۔ صفت کُتِلٌ۔
 الْجَمَارُ: گدھے کا زین پر لوٹنے سے غبار آلود ہونا۔

كَاتَلَهُ اللَّهُ: اللہ اسے غارت کرے۔
 كُتِلَ الشَّيْءُ: کسی چیز کو جمع کرنا اور اسے گول بنانا۔
 تَكْتُلُ الْقَصِيرُ: پستہ قد کا چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا جیسے وہ لڑھک رہا ہو۔ الشَّيْءُ: جمع ہونا۔ نہ بند ہونا اور گول ہونا۔

رُكْتُلَ: گذرنا۔ جانا۔
 الْكُتْلَةُ مِنَ الطَّيْنِ وَنَحْوِهِ: مٹی وغیرہ کا جمع شدہ تہ بننے والا گوشت کا ٹکڑا۔ کھجور کا گچھا۔ ج۔ كُتْلٌ۔
 الْكُتَالُ: نفس۔ ضرورت و حاجت جو پوری کی جائے۔ مشقت۔ درست کیا ہو الباس یا کھانا۔ تنگ زندگی۔ گوشت۔ قوت۔

الْكُتْلُ: موٹاپا۔ کماوت ہے۔ اَنْقَى عَلَيْهِ كُتَالًا: اس نے اس پر اپنا بوجھ ڈالا۔
 الْكُتَيْلَةُ: درخت خرماء جو ہاتھ سے اونچا ہو۔ ج۔ كُتَالٌ۔
 الرُّكْتُلُ: سخت مصیبت۔

الْيَمْلَعُ وَالْيَمْلَعَةُ: کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ٹوکرا۔ ج۔ مَلَكَاتِلٌ۔
 الْيَمْلَعُ: مصائب زمانہ میں سے ایک مصیبت۔
 الْكَاتِلِيَا: رومن کیتھولک جو پطرس کے جانشین، پاپائے روم کے پیرو ہیں واحد کاتولیکی اور جمع کاتولیکیوں (یہ لفظ ذیل ہے)

كُتِمَ دَنٌ، كُتِمًا دُكُتِمًا وَكُتِمَ دُكُتِمًا: الشَّيْءُ: کسی چیز کو پوشیدہ کرنا۔ چھپانا۔ بعض اوقات کُتِمَ دُکُتِمًا مفعولوں کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔
 جیسے كُتِمَتْ زَيْدًا الْحَدِيثُ: میں نے زید سے بات چھپائی۔ مفعول اول میں مِنْ بھی بڑھایا جاتا ہے۔ جیسے كُتِمَتْ مِنْ زَيْدٍ الْحَدِيثُ۔
 كُتِمَ الشَّيْءُ: کسی چیز کو بہت چھپانا (مبالغہ)

اَلْكُتِمَ الشَّيْءُ: زرد ہونا۔
 كُتِمَ دَنٌ، كُتُوْا مَا وَكُتِمًا: الْإِنَاءُ: برتن کا دودھ یا پینے کی چیز کو بننے سے روکے رکھنا۔

كَاتَمَهُ مُكَاتَمَةً: السِّرُّ: بھید چھپانا۔
 كَاتَمَهُ الْعَدَاوَةَ: دشمنی کو چھپانا۔
 تَكَاتَمَ الرَّجُلَانِ الْحَدِيثُ: ایک دوسرے سے بات پوشیدہ رکھنا۔
 اِنْكُتِمَ: چھپنا۔ کتھکا تابع۔
 اِسْتَكُتِمَ السِّرُّ فَلَا تَأْتِي: کسی کو بھید چھپانے کے لیے کہنا۔

الْكُتْمَةُ: پوشیدگی۔
 الْكُتْمُ وَالْكُتْمَانُ: وہ دسمہ جس سے خطاب بناتے ہیں اور اس سے کہنے کے لیے روشنائی بناتے ہیں۔
 الْكَاتِمُ: فانا: کہا جاتا ہے "سِرُّ كَاتِمٌ" بمعنی مَكْتُومٌ: یعنی چھپا ہوا۔ بھید۔



الْكَثَابُ وَالْكَثَابُ - بغیر پیکان اور بغیر پر کا تیر۔
 الْكَثِيبُ - ریت کا ٹیلہ۔ جَمُّ كَثِيبٍ وَكُثْبَانٌ وَكَثِيبَةٌ
 الْكُثْبَاءُ مِثْلُ -
 كَثَبَ دَن، كَثَبَا - مِنَ الطَّعَامِ - بقدر کفایت کھانا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ غلے جانا۔
 كَثَحَ (ف، الشَّيْءُ) - کسی چیز کو جمع کرنا، بکھیرنا۔
 كَفَحَتِ الْيَوَاحِرُ التُّوَابَ عَلَيْهِ - ہوا کا غبار اڑانا۔
 كَثَحَ - مِنَ الْمَالِ - مال خواہش کے مطابق ہونا۔
 كَثَحَ - عَنِ كَذَا - کھون۔ کہا جاتا ہے۔ كَفَحَتْهُ الْيَوَاحِرُ - اس کو ہوائے کھل دیا۔
 تَكَثَّرَ الْقَوْمُ بِالسُّيُوفِ - آپس میں شمشیر زنی کرنا۔
 تَكَثَّرَ بِالْحَصَى - بہ تکلف کنکریوں سے مارنا۔
 اَلْكُثْحَةُ مِنَ النَّاسِ جَمْعُ سِجْمَةٍ سِجْمَةٌ كَثْرَةٌ، كَثْرَةٌ وَكَثَارَةٌ - بہت ہونا صفت کثرت۔ کَثِيرٌ وَكَثَارٌ وَكَثِيرٌ وَكَثِيرٌ
 كَثَرْدَن، كَثَرَا - الرَّجُلُ - کثرت میں غالب ہونا۔
 كَثَرَهُ - زیادہ کرنا۔
 اَكْثَرُ الرَّجُلِ - بہت مالدار ہونا۔ بہت لانا۔ الشَّيْءُ - زیادہ کرنا۔ کسی چیز کو بہت شمار کرنا یا افراط سے پاتا۔
 النُّخْلُ - درخت خرما کا شگوفہ دار ہونا۔ کہا جاتا ہے: اَكْثَرُ اللّٰهِ رَيْبًا مِّثْلَكَ - خدا تعالیٰ تمہارے جیسے کو ہمارے اندر داخل کرے۔
 كَاثَرَهُ - کثرت میں غالب آنا۔ کثرت مال یا

کثرت حد پر فخر کرنا۔ كَاثَرُ الْمَاءِ - پینے کے لیے پانی زیادہ چاہنا۔
 تَكَثَّرَ بِمَالٍ غَيْرِهِ - دوسرے کے مال سے غنی ہونا۔ مِنَ الشَّيْءِ - کسی چیز سے بہت لینا۔ يَأْكُلُ كَثْرًا - بہت گفتگو کرنا۔ فُلَانٌ كَثَرَتْ ظَاهِرُ كَرْنَا - تَكَثَّرَ الْقَوْمُ - بہت ہونا۔ کثرت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔
 الشَّيْءُ - کسی چیز کو بہت سمجھنا یا بہت شمار کرنا۔ مِنَ الشَّيْءِ - کسی چیز کو بہت کرنا یا اس کی بہت خواہش کرنا۔
 اَلْكَثْرُ وَالْكَثْرُ - بہت۔ قِلٌّ اَوْ قُلٌّ کی ضد۔
 كَثُرَ - الشَّيْءُ - چیز کی بہتات۔ کہاوت ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى الْبَقْلِ وَ الْكَثْرِ - کمی اور زیادتی پر خدا کا شکر ہے۔
 اَلْكَثْرَةُ - بُہتات۔ زیادتی۔
 اَلْكَثْرَةُ - بالکسر زید کے ساتھ یہی معنی ہے۔ مگر یہ تلفظ صحیح نہیں ہے۔ بعض نے قلت کے لفظ کے ساتھ اسے صحیح کہا ہے جیسے الْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ۔
 اَلْكَثْرَى - مِنَ التَّيْبِيلِ وَ نَحْوِهِ - نبید وغیرہ کی زیادتی۔
 اَلْكَثِيرُ - بہت۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ كَثِيرٌ دَكِيفَةٌ دَكِيفُونَ - وَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ دَكِيفَةٌ وَ كَثِيرَاتٌ - کہا جاتا ہے: كَثِيرًا مَا يَعْمَلُونَ كَذَا - اس میں کثیراً ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے۔ اس لیے کہ یہ احیاء کی صفت ہے اور مَا تَاكِدُ کے لیے زائد مستعمل ہے۔ بعض نے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے اسے منصوب مانا ہے اور مَا کثرت میں مبالغہ کے معنوں میں زائد۔

الْكَثَارُ - بہت۔
 اَلْكَثَارُ - جماعتیں کہا جاتا ہے۔ رَفِ الدَّارِ كَثَارٌ اَوْ كَثَارٌ مِنَ النَّاسِ - گھریں لوگوں کی جماعتیں ہیں۔ یہ الفاظ صرف جانداروں کے لیے مستعمل ہیں۔
 نَبْجَانِ حِزْوٍ کے لیے نہیں ہیں۔
 اَلْكَثَرُ - بہت فیاض مرد۔
 اَلْمُكْثَرُ - مالدار۔
 اَلْيَمَّكَثَارُ وَالْيَمَّكَثِيرُ - بہت بولنے والا۔
 رَمَذُ كَرْمُونَتْ دُونِ لِي -
 اَلْمُكْثُورُ - مفعول مغلوب۔ وہ شخص جس پر بہت سے آدمی جمع ہو جائیں اور اسے دبا لیں۔ وہ شخص جس کا سرمایہ ختم ہو جائے۔ اور اس پر لوگوں کے حقوق اور مطالبات بہت زیادہ ہو جائیں۔
 كَثَعَ دَفْ كَثَعًا - اللَّبَنُ - دودھ کا گارھا اور باقی والا ہونا۔
 كَثَعَتْ دَفْ، كَثَعُوا وَ كَثَعَتْ - بکری کے پیٹ کا نرم اور ڈھیلہ ہونا۔
 كَثَعَتْ دَفْ، كَثَعُوا وَ كَثَعَتْ - (س) كَثَعًا - الشَّفْةُ - ہونٹ سے بہت خون نکلنا۔ یہاں تک کہ اللہ کے قریب ہو جائے ایسے ہونٹ کو کَاثَعَةً اور ایسے ہونٹ والے کو دَاكْثَعَةً کہتے ہیں۔
 كَثَعَ اللَّبَنُ اَوِ الْغَنَمَ - بھنی کثع۔
 كَثَعَتْ اَلْأَرْضُ - زمین سے نباتات کا ظاہر ہونا۔ اَلْقَدْرُ - ہانڈی کا جھاگ پھینکنا۔ اَلْجَوْحُ - زخم کے اوپر کے حصہ کا اچھا ہونا۔ رَحِيَّةٌ فُلَانٍ - ڈاڑھی لمبی اور گھنی ہونا۔ فُلَانٌ اَلنِّسْقَاءُ - مشیزہ کے اوپر کی چکن ہٹ کو کھانا۔
 اَلْكُثْعَةُ وَالْكُثْعَةُ - بالائی۔ ہانڈی کے جھاگ۔ اَلْكُثْعَةُ - اوپر کے ہونٹ کے درمیان کا فرق یا گڑھا۔



الْمُكْتَفَى - گارا۔ کیڑ۔ گیلی مٹی۔
 الْمُكْتَفَى - فا۔ اِمْرًاؤُا مُكْتَفَى - وہ
 عورت جس کے ہونٹوں یا مسوڑھوں
 سے بہت خون نکلے۔
 كُثِفَتْ دَنٌ كَثَافَةٌ وَتَكَثَّفُ - موٹا
 ہونا۔ بہت ہونا۔ گنجان ہونا۔ صفت
 كَثِيفٌ - دودھ۔
 كَثَفَةٌ - موٹا کرنا۔ کثیف کرنا۔ گاڑھا کرنا۔
 اَلْكُثْفُ وَنَهْ - قریب ہونا۔ امکان۔
 اِسْتَكْثَفَ - کسی چیز کا کثیف یا گاڑھا
 ہونا۔ الشیء کسی چیز کو کثیف پانا
 یا سمجھنا۔ اَلْأَمْرُ کسی کام کا بلند
 اور اونچا ہونا۔
 اَلْكُثْفُ - جماعت۔
 اَلْكُثِيفُ - کثافت والا۔ گاڑھا۔ کہا جاتا
 ہے "رَجُلٌ كَثِيفٌ" سخت اور
 بدحالی کی زندگی بسر کرنے والا مرد۔
 اَلْكُثَافُ - بہت۔
 كَثُكْتُ الرَّجُلُ یعنی ڈاڑھی ہونا۔
 اَلْمَكْثُكُ وَ اَلْمَكْثُكُ - سگریزے
 كَثَلُ دَنٌ كَثَلًا - الشیء جمع کرنا۔
 اَلْمَكْلُ - گروہ۔ جماعت۔
 اَلْمَكْوُتِلُ وَ اَلْمَكْوُتِلُ - کشتی کا دنیالہ۔
 اَلْمَكَاوِلِینُ - روئے کی تھوڑی فرقہ۔
 كَشَمَ دَضٌ كَثْمًا - الشیء جمع کرنا۔
 اَلْأَقْرَ - اتباع کرنا۔ پیروی کرنا۔
 الشیء - منہ میں رکھ کر ٹوڑنا۔
 كَثَمَهُ مِنَ الْأَمْرِ - کسی چیز سے
 باز رکھنا۔
 كَشَمَ دَسٌ كَثْمًا - شکم سیر ہونا۔ بڑے
 پیٹ والا ہونا۔ صفت اَكْشَمُ -
 كَاشَمَهُ - قریب لانا۔ میل ملاپ رکھنا۔
 اَكْشَمَ - القِدْبَةُ - مہک بھڑا۔ فی
 بَیْنَتِهِ - گھر میں روپوش ہونا۔
 اَكْشَمَهُ - اَلْمَقْدُ - شکار کا قریب ہونا۔

كَشَمَ - حیران ہونا۔ توقف کرنا۔ چھپنا۔
 اَلْكَشَمُ - غمگین ہونا۔ عَنْ وَجْهِ كَذَا۔
 پھر جانا۔
 اَلْكُثْمُ وَ اَلْكَائِمُ - عَنِ الطَّيْنِ وَ
 تَحْوُہ - گاڑھا کیڑ وغیرہ۔
 كَشَمَ - اَلطَّرِيقُ - راستہ کا ظاہری حصہ
 کہا جاتا ہے "رَمَاهُ عَنْ كَشَمٍ"
 اس نے اس پر قریب سے تیر مارا۔
 اَلْاَكْشَمُ - چڑا راستہ۔ وَطَبَ اَكْشَمُ
 دودھ سے بھرا ہوا برتن۔
 اَلْكُثْمَةُ - گلدستہ۔
 اَلْمَكْمُ - خالص۔ کہاوت ہے "هُوَ
 عَرَبِيٌّ كَمُ" وہ خالص عربی ہے۔
 كَشَبَ - اَلْكَوْمُ - کچا انگوڑا ہونا۔
 اَلْمَكْبُ - کچا انگوڑا۔ واحد كَشْبَةٌ۔
 اَلْكَاجِبُ - بہت۔ کہا جاتا ہے "عِنْدَهُ
 دَرَاهِمٌ كَا جِبَةٍ" اس کے پاس
 بہت درہم ہیں۔
 كَحَطَ دَفٌ كَحْطًا - لَهُ مِنَ الْمَالِ -
 دونوں ہاتھوں سے مال دینا۔
 كَحَضَ دَفٌ كَحْضًا - اَلْأَقْرَ -
 نشان مٹنا۔ اَلطَّلِيمُ بَشْتَرُ مَرْغ
 کا زمین میں اس طرح جانا کہ وہ دکھائی
 نہ دے۔ اَلرَّجُلُ پیٹھ موڑ کر بھاگنا
 - كَحْضًا - اِلِیْ فُلَاَنًا - مٹانا۔
 محو کرنا۔ پرجلیہ۔ پاؤں سے
 کریدنا۔ اَلارَضُ - زمین سے غبار
 اڑانا۔ الشیء - کوٹنا۔ كَحْضًا
 كَحَضَ - اَلْأَقْرَ - نشان مٹانا۔
 اَلْكَاحِصُ - فا۔ بیر سے کریدنے والا۔
 مَوْنَتُ كَا حِصَّةً - جہ۔ كَوَا حِصًی
 اَطْلَا "كَوَا حِصًی" مکان کے مٹے
 ہوئے نشانات۔
 كَحَطَ دَفٌ كَحْطًا - اَلطَّلَامُ - قحط۔
 خشک سالی ہونا۔ صفت كَا حِطًا -

اَلْكُحُوفُ - جسم کے اعضاء۔
 كَحَلَّ دَفَنٌ كَحْلًا وَ كَحَلَّ - اَلْعَيْنُ
 آنکھوں میں سرمہ لگانا۔ صفت
 كَا حِلٌّ وَ كَحَالٌ - كَحَلَّ السَّهَادَ
 عَيْنَهُ - بیداری کا کناہ ہے۔ بیخوابی۔
 كَحَلَّ دَفَنٌ كَحْلًا وَ اَلْكَحَلُ - اَلْعَامُ -
 سخت خشک سالی ہونا۔ اَلسَّنُونُ
 اَلْقَوْمُ - قحط پڑنا۔
 كَحَلَّ وَ اَلْكَحَلُ وَ تَكَحَّلَ وَ لَكْتَ حَلَّ
 وَ اَلْكَحَالُ - اَلْمَكَانُ بِالْخُضْرَةِ
 کسی جگہ نباتات کی ابتدائی سبزی
 ظاہر ہونا۔
 كَحَلَّتْ كَحْلًا وَ لَكْتَ حَالَتْ - اَلْعَيْنُ -
 آنکھ کا سرگیں ہونا۔
 كَحَلَّ الرَّجُلُ - سرگیں آنکھ والا ہونا۔
 تَكَحَّلَ وَ لَكْتَ حَلَّ - آنکھوں میں سرمہ
 لگانا۔
 اَلْكَحَلُ - فَلَانٌ - نرمی کے بعد سختی میں
 مبتلا ہونا۔ اَلسَّهَادُ - بیدار رہنا۔
 اور نیند نہ آنا۔ وَ جَهْلُهُ يَالْهَجْدَ -
 چہرہ پر سرخ کا اثر ظاہر ہونا۔ محاورہ
 ہے "مَا اَلْكَحَلُ عَيْنِي يَلِكُ"
 میں نے تم کو نہیں دیکھا۔
 اَلْكَحَلُ - مَص - سخت قحط کا سال۔
 كَحَلُّ كَحَلُّ كَحْلَةٍ - غیر منفرد ہیں۔
 آسمان کے نام ہیں۔ کہا جاتا ہے
 "صَوَّرَحْتُ كَحْلًا" جبکہ آسمان
 میں بادل نہ ہوں۔
 اَلْكَحَلُ - سَنَگْ - سرمہ۔ ہر وہ چیز جو آنکھوں
 میں شفا کے لیے ڈالی جائے۔ مال
 کثیر۔
 اَلْكَحَلُ - پیدائشی طور پر آنکھوں کا سرگیں
 ہونا۔
 اَلْكَحَالُ - سَنَگْ - سرمہ۔
 اَلْكَحَلُ وَ اَلْكَحْلَةُ - مَرَّةٌ تَقْوِیدُ اور



بقول بعض مہرہ نظر بد۔ عَيْنٌ
كُحِيلٌ وَكُحِيلٌ دَكْحِيلَةٌ۔ سرگیں
آنکھ۔ ج۔ کُحْلٌ دَكْحَالٌ۔
اَعْيُنٌ كُحْلَاءٌ۔ سرگیں آنکھیں۔
الْكُحِيلُ۔ نقطہ قطران جو اوتوں پر ملا
جاتا ہے۔
الْاَكْحَلُ۔ سرگیں مرد۔ بازو کی ایک رگ کا
نام جس کی فصد کھولی جاتی ہے۔
الْكُحْلَاءُ۔ الْاَكْحَلُ کا مؤنث۔ ج۔
كُحْلٌ۔ وہ عورت جس کی آنکھیں
بہت سیاہ ہوں۔ سفید جسم اور سیاہ
آنکھوں والا بیٹلھا۔
الْكُحْلَاءُ وَالْكُحْلَاءُ۔ گاؤں بان۔
الْكُحْلِيُّ۔ سرمہ ساز۔
الْمِكْحَلُ وَالْمِكْحَالُ۔ بُرہم کی سلائی
مُكْحَلَةٌ۔ سرمہ دانی۔
كُحْلٌ يَكْبَحُ كُحْبًا۔ الشَّيْءُ خراب ہونا
فاسد ہونا۔
كُحْرٌ رَضٍ كُحًا وَكُحْيَا۔ فِي نَوْمٍ
خراٹے لینا۔
كُتْدٌ رَضٍ كُتْدًا۔ سخت کام کرنا۔ روزی
تلاش کرنا۔ سائل کی طرح انگلی سے
اشارہ کرنا۔ مانگنے میں اصرار کرنا۔
الْكُتْلُ۔ تھکانا۔ الْوَأْسُ۔ سر میں
کنگھی کرنا یا سر کو بہت کھجانا۔
الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو ہاتھ سے چھیننا۔
كُتْدَةٌ۔ سختی سے ہٹانا اور جدا کرنا۔
تَكْتَدُ۔ تکلیف برداشت کرنا۔
اَكْتَدَ وَاَكْتَدَ۔ کنبوسی کرنا۔
اَكْتَدَ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو ہاتھ سے
چھیننا۔
اَكْتَدَ وَاسْتَكْتَدَ۔ کام میں محنت
کرنا۔
اَلْكُتْلُ۔ مص۔ کوشش، محنت، وہ چیز جس
میں کوئی چیز کوئی جائے جیسے ہاون۔

محاورہ ہے: "لَکَیْسَ هَذَا مِنْ کَدِّکَ وَلَا مِنْ کَدِّ اَیْکَ" یہ تمہاری اور تمہارے باپ کی کوشش سے حاصل نہیں ہوئی۔

اَلْکَدُّ وَالْکَدِیْدُ۔ سخت زمین۔

اَلْکَدِیْدُ۔ موٹا موٹا پسا ہوا نمک۔ وادی سے زیادہ فراخ زمین۔

اَلْکَدَادَةُ وَالْکَدَدَةُ وَالْکَدَدَةُ۔ ٹانڈی کی کھرچن۔

کَدَادَةُ السَّمَنِ۔ گھی کی تلچھٹ۔

کَدَادَةُ الْکَلَاءِ۔ تھوڑی گھاس۔

اَلْکَدُوْدُ۔ بہت محنت کرنے والا آدمی۔

بَجِلٌ۔ بے گار۔ وہ کون جس کا پانی مشکل سے نکل سکے۔

اَلْاِکْدَةُ۔ چری ہوئی چراگاہ کا لقیہ حصہ۔

قَوْمٌ کَدَّوْا کَادِیْدٌ۔ ان الفاظ کا واحد متعل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے: "رَأَيْتَهُمْ کَدَّوْا کَادِیْدٌ" میں نے انہیں ٹوٹیوں میں دیکھا۔

اِبِلُ الْکَدَادِ۔ تیز چلنے والے اونٹ اَلْکَدُّ۔ کنگھی۔

اَلْمَكْدُوْدُ۔ مفعول۔ مغلوب۔ اَرْضٌ مَكْدُوْدَةٌ۔ کھوں سے روندی ہوئی زمین۔

کَدَّوْا کَدِیْدٌ دَفَسَ کَدَّوْا کَدِیْدٌ۔ اَلْسَبْتُ۔ نباتات کا سردی یا پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے مرجھانا۔ اور نہ بڑھنا۔

کَدِیْعٌ کَدَّ اَرْضَ الْغَوَابِ۔ کوڑے کا تھے کرنے جیسی آواز نکالنا۔ اَلْبَقْلُ۔ سبزیوں کا چھوٹا اور خراب ہونا۔

اَلْاِیْلُ۔ اونٹ کا کم بال والا ہونا۔

کَدَّوْا کَدَّوْا۔ اَلْبَرْدُ الْعَبَاتُ۔ سردی کا نباتات کو زمین سے اوپر بڑھنے نہ دینا۔ اَرْضٌ کَادِیْعَةٌ۔

الاَذْيَارُ - کم بال والے اونٹ۔
 الْكَذِبُ وَالْكَذِبُ وَالْكَذِبُ - جانوں
 کے ناخن کی سفیدی۔ واحد كَذِبَةٌ
 دَمٌ كَذِبٌ - تازہ خون۔
 كَذَبَ رَجُلٌ، كَذَبَ جَاءَ - الرَّجُلُ - بقدر
 کفایت پینا۔
 كَذَحَ رَجُلٌ، كَذَحَ - فِي الْعَمَلِ - کام
 میں بہت محنت کرنا۔
 كَذَحَ - لِقِيَاءِهِ - اہل وعیال کے لیے
 کمانا۔ رَأْسُهُ بِأَلْيَشِيطٍ - کنگھی
 سے سر کے بالوں کو علیحدہ کرنا۔
 كَذَحَ الْوُجْهَ - چہرہ کو نوچنا۔
 لَكْتُ كَذَحَ - لِعِيَالِهِ - اہل وعیال کے لیے
 رزق کمانا۔
 تَكَذَّحَ الْجُلْدُ - خراش آنا۔ کہا جاتا
 ہے "وَقَعَ مِنَ السَّطْحِ تَكَذَّحٌ"
 وہ چھت سے گر پڑا اور اسے خراش
 آئی۔
 الْكَذْحُ - بمـ خراش۔ جـ كَذْحٌ۔
 كَذَسَ رَجُلٌ، كَذَسَ رَجُلٌ، وَكَذَسَ رَجُلٌ،
 كَذَرَا وَكَذَرَا وَكَذَرَا وَكَذَرَا
 كَذَرَا وَكَذَرَا وَكَذَرَا - گدلا ہونا۔
 میلا ہونا۔ كَذَرَ عَلَى فُلَانٍ - وہ
 فُلَان پر ناراض ہوا۔ كَذَرَ الْعَيْشُ -
 زندگی تلخ ہوئی۔
 كَذَرَ الشَّيْءُ - گدلا کرنا۔ میلا کرنا۔ کہا
 جاتا ہے "كَذَرَ عَيْشُ فُلَانٍ"
 فُلَان کی زندگی تلخ کر دی۔
 تَكَذَّرَ وَكَذَّرَ - الشَّيْءُ - گدلا ہونا
 میلا ہونا۔
 اِنْكَدَرَ - فِي السَّيْرِ - تیز دوڑنا۔ عَلَيْهِ
 الْقَدَمُ - قوم کا کسی پر لٹ پڑنا۔
 الْكَدَرَةُ - مَص - مِنَ الْأَوْتَانِ - ٹیالا۔
 الْكَدَرَةُ - مِنَ الْخَوْضِ - کچھ پانی کا ٹی
 وغیرہ۔ کاٹی ہوئی کھیتی کا مٹھی بھر حصہ۔

ڈھیر
 اَلْكَدُ اِسْ اَلرَّصْلُ - ریت کا تہ بننے ڈھیر۔
 اَلْكَدُ اَسْنَهُ - ایک دوسرے پر اکٹھا کیا
 ہوا ڈھیر۔
 اَلْكَادِسُ - فادہ پہنچ جس سے بد فالی لی
 جائے، جیسے چھینک وغیرہ - ہر۔
 گوا دِس۔
 اَلْمُتَّكَدِسُ - فَا - مِنَ الشَّجَرِ - گنجان
 درخت۔
 كَدَّ شَهْ رَضًى، كَدَّ شَا - خرابش لگانا۔
 تلوار یا نیزے سے مارنا۔ سختی سے
 ہٹانا۔ کاٹنا۔ نکال دینا۔
 كَبَدَّ شً - لَعِيَالِه - اہل وعیال کے لیے
 روزی تلاش کرنا۔
 اَلْكَدَّ شً وَا لَمَّ تَدَّ شً - مِنْ فُلَانٍ
 عَطَاءً - کسی سے بخشش حاصل کرنا۔
 بَخْبَرٍ تَهَوَّطِي سے خبر دینا۔
 تَكَدَّ شً - الرَّجُلُ - کسی کے پیچھے کے
 دھکے سے کرنا۔
 اَلْكَدَّ شً - زَحْمٌ - کہا جاتا ہے "جَلْدُ كَدَّ شً"
 زخمی کھال۔
 اَلْكَدَّ اَشً - بہت کمانے والا۔ باصرار
 مانگنے والا۔
 كَدَّ عَهْدَهُ، كَدَّ عَهْدَهُ - دفع کرنا۔
 اَلْكَدُّ عَهْدٌ - ذیل وُرسوا ہونا۔
 اَكْدَفَ - اَلْفَرَسُ - گھوڑے کے ٹاپ
 کی آواز سنائی دینا۔
 اَلْكَدُّ فَهٌ - گھوڑے کی ٹاپ یا پاؤں کی آواز۔
 كَدَّ كَدَّ - الرَّجُلُ - بہت زیادہ ہنسنا۔
 چلنے میں گرا بار ہونا - عَلِيْلٌ - حملہ
 کرنا۔
 كَدَّ كَدَّ وَ تَكَا كَكَ - سختی سے ہٹانا
 اور نکال دینا۔
 اَلْكَدُّ كَدَّ - مَم - سخت چیز پر کسی چیز کے
 مارنے کی آواز۔

کدَم دَن ضَ کَدَمًا۔ اگلے دانوں سے
 کاٹنا اور نوچنا۔ الصَّيْدُ۔ شکار کو
 بھگانا۔ محاورہ ہے "کَدَمٌ فِي غَيْرِ
 مَلَكَدِمٍ" بے موقع طلب کیا۔
 كَادَ مَتَّ الدَّابَّةُ الْحَشِيشَ۔ چوپائے
 کا گھاس پر اچھی طرح سے قادر نہ ہونا۔
 اَلْكَدَمُ۔ اَلْاَسِيرُ۔ قیدی کا اچھی طرح سے
 باندھا جانا۔
 تَكَادِ مَوَابَا لَا خَوَا۔ ایک دوسرے کو
 دانت سے کاٹنا۔
 اَلْكَدَمُ۔ اثر، نشان۔ سِر۔ کَدُوْمٌ۔
 اَلْكَدَمُ۔ دانوں سے بہتے کاٹنے والا۔
 بہت جنگ جو۔ سبز سرکالی ٹڈی۔
 واحد کَدَمَةٌ۔
 اَلْكَدَمَةُ۔ کدم کا اسم مرۃ۔ داغ۔ نشان۔
 اَلْكَدَمَةُ۔ حرکت۔
 اَلْكَدَمُ وَالْكَدَمُ۔ دانوں سے بہت
 کاٹنے والا۔
 اَلْكَدَمُ۔ گھاس کی شکستہ جڑیں جو
 بارش کے بعد پھر اُگ آئیں۔ پورھا
 مرد۔
 اَلْكَدَامَةُ۔ کھائی ہوئی چیز کا بقیہ حصہ۔
 دانت سے کاٹ کر علیحدہ کیا ہوا۔
 اَلْكَدَامَةُ وَالْكَدَامُ۔ کھائی ہوئی چیز کا
 بقیہ حصہ۔
 اَلْمُكْدَمُ۔ دانت سے کاٹنے کی جگہ۔
 اَلْمُكْدَمُ مِثْلُ الْجِبَالِ وَالْاَكْسِيَةِ۔
 مضبوط بٹی ہوئی رسیاں وغیرہ۔ قَدَحٌ
 مُكْدَمٌ۔ موٹے دل کا شیشہ کا پیالہ۔
 اَسِيرٌ مُكْدَمٌ۔ رسی سے بندھا
 ہوا قیدی۔
 اَلْمُكْدَمُ۔ دانت سے کاٹا ہوا۔ رَجُلٌ
 مُكْدَمٌ۔ جنگ کا زخمی شدہ۔
 كَدَنَ كَدَنًا۔ بالثوب۔ پٹکا باندھنا۔
 اَلْكَدَنُ وَالْكَدَنُ۔ کپڑا جس کو عورت

پردے میں پنے۔ پاکلی، کجاوہ۔ جانور کی ٹانگ کی کھال جس کو دباغت مینے کے بعد ہاون کی طرح دوا وغیرہ کرنے کے استعمال میں لاتے ہیں۔
جر۔ کڈوؤں۔

الکڈ نڈہ۔ کوہان۔
الکڈ نڈہ والکڈ نڈہ۔ چربی اور گوشت کی کثرت۔

الکڈ اتہ۔ فرومانگی۔ نااہل۔
الکڈن۔ بہت چربی اور گوشت والا۔
مؤنٹ کڈ نات۔

الکڈن۔ مٹیالا۔
الکڈن ان۔ نرم پتھر سی کا ٹکڑا کڈ اتہ ہے۔ یہ کڈن کی تحریف ہے۔

کڈہ (ف) کڈھا کڈہ۔ السخی۔ کسی چیز کو توڑنا۔ بالٹھجیر پتھر سے سخت زگڑنا۔ عکبیکہ کسی پر غالب ہونا۔ السخہ فکر سے پریشان ہونا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مَكْدُوٌّ" مِنْ السَّخَّةِ وہ غم کی وجہ سے پریشان ہے۔ رَاهِلِهِ اہل و عیال کیلئے محنت سے کمانا۔ شَعْرَهُ بِالْمَشْطِ بنگھی سے بالوں میں مانگ نکالنا۔

تکڈہ۔ ٹوٹنا۔
الکادہ۔ فافا۔ توڑنے والا۔ جر۔ کڈہ۔
الکڈہ۔ رم۔ خراش، پتھر کی رگڑ کا اثر۔ جر۔ کڈوؤ۔

کڈا یکڈوا کڈوا کڈوا۔ التبت فصل خراب ہونا۔ الارض۔ زمین سے پیداوار کا دبر سے ہونا۔
کڈا عا۔ السخی کسی چیز کو کاٹنا منع کرنا۔

کڈی یکڈی کڈا۔ بالٹھجیر بڑی کا گلے میں اٹکنا۔ المسک۔ مشک

کابے خوشبو ہونا۔ صفت کڈ و کڈی۔

کڈیت۔ اصابعہ۔ انگلیوں کا کھونے کی وجہ سے ٹھکنا۔

تکڈی تکڈیا۔ محنت مشقت برداشت کرنا۔

کڈی یکڈی کڈیا۔ الرجل۔ کسی کو روکنا اور مشغول رکھنا۔ الوجہ۔ چہرہ کو نوچنا۔ الرجل۔ دینے میں بخل کرنا۔

اکڈی اکڈا عا۔ الرجل کڈا عا۔ عن کڈا۔ کسی چیز سے باز رکھنا۔ روکنا۔

اکڈی المعدن۔ کان سے جواہرات کا نہ نکلنا۔ الحاضیر۔ کھودتے کھودتے سخت زمین تک پہنچنا اور آگے نہ پہنچ سکا۔ محاورہ ہے۔ "سَأَلَهُ فَيَا كُذِّبِي" اس نے اس سے سوال کیا تو اس کو سخت زمین کی مانند پایا اور وہ کچھ نہ دے سکا۔

التبت۔ نباتات کا سردی کی وجہ سے چھوٹا ہونا۔ العام۔ خط سال ہونا۔ المصطو۔ بارش کم ہونا۔ الرجل۔ مرد کا خوشحالی کے بعد محتاج ہونا۔

کڈی تکڈیہ۔ سوال کرنا۔ خیرات مانگنا۔

تکڈی تکڈیہ۔ یا بخشش طلب کرنا۔
الکڈیہ۔ سخت ٹھوس زمین۔ بڑی سخت چٹان۔ جر۔ کڈی بخشش کا مطالبہ۔ باصا۔ بھید۔ مانگنے کا پیشہ۔ زمانے کی سختی۔

الکڈا عا۔ والکڈا عا۔ مٹی یا غلے کا ڈھیر۔

الکڈیکہ۔ زمانہ کی سختی۔
کڈ۔ کڈا۔ کھردرا ہونا۔

الکڈ۔ نرم پتھر پر چرنا۔

الکڈ ان۔ نرم پتھر اور کڈا عا۔

کڈب (م) کڈبا و کڈبا و کڈبا۔

وکڈیہ۔ ورا۔ وکڈا عا۔

جھوٹ بولنا۔ جان بوجھ کر غلط خبر دینا۔

کڈب التبت۔ آنکھ کا دھوکا دینا۔

کڈب (م) التبت۔ رائے کا حقیقت کے خلاف ہونا۔ کہا جاتا ہے "کڈب التبت عینک" تمہاری آنکھ نے حقیقت کے خلاف مشاہدہ کیا۔

کڈب التبت۔ جلنے میں کوشش نہ کرنا۔

کڈب القوم التبت۔ لوگ سات کو نہیں چل سکے۔ یہ فعل کبھی مفعول کی طرف متحرک ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے "کڈبہ الحدیث" اس نے غلط خبر دی اور خلاف واقعہ بیان کیا

مشدد ہونے کی صورت میں صرف ایک مفعول آتا ہے۔

کڈب الرجل۔ اسے جھوٹی خبر دی گئی۔

کڈبہ۔ جھٹلانا۔ دروغ بیانی کا الزام لگانا۔

کڈب عن امیر ارادہ۔ کسی بات کا ارادہ کرتے ہوئے رک جانا۔ عتاً الحو۔ گرمی کا کم ہونا۔ عن فلاں۔ فلاں کی طرف، سے جواب دینا اور

تردید کرنا۔ کہا جاتا ہے "ما کڈب ان فَعَلَ کڈا" اس نے ایسا کام کرنے میں دیر نہیں کی۔

کڈب نفسہ۔ اپنے جھوٹ کا اقرار کرنا۔

تکڈیبا و کڈا عا۔ بالآصہ۔ کسی چیز سے انکار کرنا۔ ارشاد کیا گیا ہے "کڈب بالآیات ربہ" اس نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا۔

کڈب۔ جھوٹ پر آمادہ کرنا۔ جھوٹا سمجھنا۔

اکڈبہ۔ جھوٹ پر آمادہ کرنا۔ جھوٹا سمجھنا۔



کُوبَ يَفْعَلُ۔ دہ کرنے لگا۔
 كُوبَ كُوبًا وَكُوبًا۔ اَرْضُ يَلْدُرُجُ
 کھیتی کے لیے زمین جوتنا۔
 كُوبَ كُوبًا۔ الرُّجُلُ۔ ڈول کے دستہ
 کی رسی کا ٹوٹنا۔
 كُوبَ۔ رَجَّحَ وَغَمَ ہونا۔
 كُوبَ۔ الدُّوْ۔ ڈول کے دستہ پر
 چھوٹی رسی باندھنا۔ الرُّجُلُ۔ بے
 آب و گیاہ زمین میں کھیتی کرنا۔ تنہ کے
 قریب گری ہوئی کھجوریں کھانا۔
 اَكُوبَ۔ قریب ہونا۔ الاَمْرُ۔ کام کا
 قریب الوقوع ہونا۔ الرِّمَاءُ۔ برتن
 کا بھرنے کے قریب ہونا۔ فِي السَّيْرِ
 تیز چلنا۔ الْبَقِيَّةُ۔ مشک بھرنے
 کا رِبَّہُ مُكَارِبَةٌ وَكُوبًا۔ ایک دوسرے
 کے قریب ہونا۔
 تَكُوبَ۔ تنہ کے قریب کی کھجوریں چُٹنا۔
 اَكُوبَ اَكُوبًا وَاَكُوبًا اَكُوبًا۔
 سخت رنجیدہ ہونا۔
 اَلْكُوبُ۔ جہ۔ كُوبُ۔ وَ الْكُوبَةُ۔ جہ
 كُوبُ۔ رَجَّحَ وَغَمَ۔
 اَلْكُوبُ۔ ڈول کے رے کو اس کے کلای
 کے دستے سے ملانے والی چھوٹی رسی۔
 کھجور کی ٹہنی کی موٹی چوڑی جڑ۔ واحد
 كُوبَةٍ۔
 اَلْكُوبَةُ۔ دہ لکڑی جس میں خیمے کے ڈنڈے
 کا سر رکھا جاتا ہے۔
 اَلْكُوبَةُ۔ سخت مصیبت۔ جہ۔ كُوبًا
 ۔ وَ اَلْكُوبَةُ۔ کھجور جو ٹہنی کی جڑ
 سے کٹنے کے بعد چنی جائے۔ جہ۔
 اَلْكُوبَةُ۔
 اَلْكُوبُ۔ وادی میں پانی کے نالے۔ واحد
 كُوبَةٍ۔
 اَلْكُوبِيُّونَ وَ اَلْكُوبِيُّونَ۔ فرشتوں
 کے سردار۔ مقرب فرشتے۔ عبرانی زبان

میں کُوبَ پینچہ کہتے ہیں۔ جہ۔ كُوبُ۔
 کبھی عبرانی لفظ کو بھی استعمال کرتے
 ہیں۔ واحد كُوبُ۔
 اَلْكُوبُ۔ بانس کی گرہ۔ تانبائی کا
 بیلن۔
 اَلْكُوبُ۔ مِنَ الْاَرْضِ۔ بے آب و
 گیاہ زمین۔ وَ اَلْمَكُوبُ۔ رنجیدہ
 پریشان۔
 اَلْكُوبَةُ۔ کوب کا مَوْنَت۔ سخت
 مصیبت۔ جہ۔ كُوبًا۔ کہا جاتا
 ہے۔ مَا فِي الدَّارِ كُوبًا۔ گھر میں
 کوئی نہیں ہے۔
 اَلْكُوبُ۔ جہ۔ جلد بازی۔ محاورہ ہے
 ”خُذْ رَجُلَكَ بِاَلْكُوبِ“
 جانے میں جلدی کرو۔
 اَلْمَكُوبُ۔ مِنَ الْعَقَابِ۔ پھٹوں
 سے بھرا ہوا مضبوط رسی کی عمارت یا
 جوڑ وغیرہ۔ حَافِظُ مَكُوبٍ۔
 مضبوط گھر۔
 اَلْكُوبُ۔ دکان یا دکان کا سامان۔ جہ
 كُوبًا۔ (دخیل)
 كُوبٌ۔ فِي عَدْوٍ۔ دوڑنے میں زور
 لگانا۔ تیز دوڑنا۔
 كُوبَسَ۔ بیڑی پڑے ہوئے شخص کی طرح چلنا۔
 تَكُوبَسَ۔ مِنْ ظَهْرِ قَرِيْبَةٍ۔ گھوڑے
 کی پیٹھ سے گر پڑنا۔
 اَلْكُوبُ۔ کھدرا کپڑا۔ شراب چھانٹنے کی
 چیز۔ جہ۔ كُوبًا۔ رَجُلٌ مَكُوبَسٌ
 التَّارِسُ۔ گول سروالامرد۔
 كُوبَسَ۔ چھلانگ لگانے کے لیے
 ٹانگوں کو اکٹھا کرنا۔ بیڑی پڑے ہوئے
 کی طرح چلنا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو
 لینا اور باندھنا۔
 تَكُوبَسَ۔ اَلْجُلْدُ۔ کھال کا سکرنا۔
 كُوبَعًا۔ پچھاڑنا۔ الشَّيْءُ بِالسَّيْفِ

کسی چیز کو تلوار سے کاٹنا۔ قَوَائِمُهُ
 ٹانگیں جدا کرنا۔
 تَكُوبَعُ۔ پیٹھ کے بل کرنا۔
 كُوبَلُ۔ کپڑے میں چلنا۔ پانی میں گھسنا۔
 الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ۔ ایک چیز کو دوسری
 چیز میں ملانا۔ الْعُقُطَةُ۔ گیہوں
 چھانٹنا۔ صاف کرنا۔
 اَلْكُوبُ۔ گیہوں چھانٹنے کی چھلنی۔ رُوًی
 دھننے کی کمان۔ جہ۔ كُوبًا۔
 اَلْكُوبَةُ۔ مَم۔ پاؤں کی سستی اور
 نرمی۔ کہاوت ہے جَاءَ يَمْشِي
 مُكُوبًا۔ وہ اس طرح آیا۔ گویا
 کپڑے میں چل رہا ہے۔
 كُوبَتُهُ۔ پچھاڑنا۔ تَكُوبَتُهُ۔ فِي
 مَشْيِهِ۔ تیز گزر جانا۔
 كُوبَتُ رَجُلٍ۔ كُوبَتُهُ وَ اَكُوبَتُ۔
 الْعُظْمُ فَلَا تَأْ۔ بہت رنجیدہ ہونا۔
 اَلْكُوبَةُ۔ الْحَبْلُ۔ رسی کا ٹوٹنا۔
 اَكُوبَتُ۔ يَلْمُزُ۔ کام کی پرواہ کرنا۔
 کہتے ہیں ”هُوَ لَا يَكُوبُتُ بَهْطًا
 الْاَمْرُ“ وہ اس معاملہ میں پرواہ
 نہیں کرتا۔
 اَلْكُوبَاتُ وَ اَلْكُوبَاتُ۔ گیندنا۔ ایک
 بدبودار قسم کی ترکاری جس کی بعض
 قسمیں پیاز اور بعض لسن کے مشابہ
 ہوتی ہیں اور بعض کے سرے نہیں
 ہوتے۔ واحد كُوبَاتَةٌ۔
 اَلْكُوبَاتُ۔ سخت غم انگیز معاملہ یا واقعہ
 جہ۔ كُوبَاتٌ۔
 اَلْكُوبَةُ۔ غم انگیز معاملہ کہا جاتا ہے۔
 ”يَسْتَفْتِي الْكُوبَةُ الْاَمْرُ“ جبکہ کوئی
 پیچھے ہٹے اور بزدلی اختیار کرے۔
 كُوبَتُهُ وَ تَكُوبَتُهُ۔ الشَّعْرُ وَ نَحْوُكَ۔ بال
 وغیرہ کا گنجان ہونا۔
 اَلْكُوبَةُ۔ تہ بہ تہ بادل۔ اندر کے اوپر



الشیءُ چھٹنا اور سخت ہونا۔
أُسُ البیناء عمارت کی بنیاد کا
مضبوط ہونا اور تہ بہ تہ ہونا۔
الحبث ونحوہ۔ دانہ وغیرہ جمع
کرنا۔

انکرس۔ علیہ۔ اوندھا ہونا۔ فی
الشیء کسی چیز میں اوندھا ہو کر
داخل ہونا۔
الکرس ہر چیز کا ڈھیر بول و براز سے
نظمی ہوئی جگہ۔ بکریوں کے بچوں
کا باڑا۔ جڑ، اصل۔ ج۔ انکرس
ججہ۔ آکادس و آکادیس۔
کرس الحوض۔ حوض کے ارد گرد
بول و براز سے آلودہ جانوروں کا بارہ
انکراسۃ و انکراس۔ کتاب کا جزو۔
یمفلٹ۔ رسالہ۔ چھوٹا مجموعہ جو کتاب
سے کمتر ہو۔ ج۔ گواریس۔

انکریسی۔ تخت۔ کرسی جس پر بیٹھا جائے
ج۔ گواریس و گوارس۔ کرسی
الاسقف۔ پادری کی قیام گاہ۔
کرسی الیمک۔ تخت شاہی۔
والکریسی۔ علم۔ کہا جاتا ہے
”ہو من اھل انکریسی“ یعنی
وہ اہل علم میں سے ہے۔ یہ بھی کہا
جاتا ہے۔ لا تجعل لهذا الحاکم
کرسیا۔ اس دیوار کے لیے پشتہ
بنادو۔ کرسی الخورایو ستارے
انکریاس۔ علماء۔
انکریاسی۔ حقیقت کے اوپر کا پاخانہ۔
ج۔ گواریس۔
انکریوس۔ بڑے سرفراز ہو مہم جو
سیاہ۔

انکرون و انکرون۔ منفع۔ من۔
القلایہ۔ دودھاگوں میں علیحدہ
علیحدہ مٹی اور مہر میں سے گوندھ کر

بڑے مہروں سے جوڑا ہوا مار۔
الکرس۔ جوان پستہ قد۔ پر گوشت۔
کرس۔ کرس۔ الرجل۔ دوڑنا۔
فلاناً۔ گٹے کے چھنگلیا والے حصہ
پر مارنا۔
الکرس۔ گٹے کا چھنگلیا کی طرف کا حصہ
ج۔ گواریس۔ کرس۔ القدم۔
ٹخنے کا جوڑ۔

الکرس۔ و الکرس۔ لوگوں کی
جماعت۔
الکرس۔ گٹے کی چھنگلیا کی طرف کا
اھرا ہوا حصہ۔
کرس۔ الکرسیۃ۔ چوپائے کی کوچ
کاٹنا۔ البجیر۔ اونٹ کے پاؤں
باندھنا۔ الدواۃ۔ دوات میں
صوف ڈالنا۔

تکر۔ کرس۔ کرس۔ کرس۔ کرس۔
پاؤں باندھنا۔ دوات میں صوف
ہونا۔ الشیء کسی چیز کا دوسری چیز
میں داخل ہونا۔ گھٹنا۔

الکرس۔ آگہ کی کدورت۔
الکرس۔ و الکرس۔ رولی۔
الکرس۔ و الکرس۔ رولی کا
ٹکڑا۔ دوات کا صوف۔

الکرس۔ و الکرس۔ ایک پودا
جس کا بیج غلاب میں ہوتا ہے۔ یہ
موشیوں کے حباب کے کام میں آتا
ہے۔ اس کے بیج کو کاؤ دانہ کہتے ہیں
اور وہ دوا میں استعمال ہوتا ہے۔
کرس۔ کرس۔ کرس۔ کرس۔
آگ کے اثر سے سگڑنا۔ الرجل
تنہائی کے بعد کسی کے پاس نہنکر
جمع ہونا۔

کرس۔ ترشرونی کرند۔ مکرش۔ ایک
قسم کا کھانا تیار کرنا۔

تکرش۔ و جھٹ۔ ترشرو ہونا۔ سگڑنا۔
القوم۔ قوم کا جمع ہونا۔
استکرش۔ الجدی۔ بکری کے بچے
کے پیٹ کا بڑا ہونا۔ اور اس کا کھلنے
لگنا۔

استکرش۔ انفخ۔ الجدی۔ بکری
کے بچے کی آنت (النفخ) کا اوجھ
(کرس) جبکہ وہ گھاس چرنے لگے
۔ الرجل۔ مرد کا تیورھی چڑھانا اور
سگڑنا۔

الکرش و انکرش۔ جگالی کرنے والے
جانور کی اوجھ جو ان کے لیے انسانی
معدہ کی مانند ہوتی ہے (مؤنث) ج
کرش۔

الکرش و انکرش۔ لوگوں کی جماعت۔
مرد کے اہل و عیال، چھوٹی اولاد۔ عمدہ
قسم کی گھاس۔ نوشبو کا ڈبہ۔ کپڑے
کی گٹھری۔ ج۔ اکراش و
کرش۔

کرش۔ القوم۔ قوم کا بڑا حصہ۔
کرش۔ شے۔ ہر چیز کا اجتماع۔
الکرش۔ اوجھ میں پکا ہوا کھانا۔
الکرش۔ من التجال۔ بڑے پیٹ

والا۔ بقول بعض زیادہ مال والا۔
مؤنث کرش۔ ج۔ کرش۔
قدم کرش۔ پر گوشت بھرے
ہونے تلونے اور چھوٹی انگلیوں والا
قدم۔ کرش۔ بڑا فعل۔
آمان کرش۔ بھرے ہونے
بکھر کر گدھی۔

الکرش۔ کھانا جو گوشت، چربی اور
اوجھ ملا کر پکاٹے ہیں۔
کرش (رض) گھٹنا۔ الشیء کسی چیز کو
کاٹنا۔ ماتھ سے نچوڑنا۔
کرش۔ پنیر کھانا۔



لَا تُكْرَهُ - الشَّيْءُ - جمع کرنا۔
الْكُرْهُ - ترش دودھ سے بنا ہوا پنیر۔ پنیر
بنانے کی جگہ۔

الْمَكْرُوهُ - دودھ دوہنے کا برتن۔
كُرْهُ - دن، کُرْطَا - الشَّيْءُ - ایک دوسرے
پر اکٹھا کرنا۔

كُرْطَان، كُرْطَا - فِي عِزِّهِ فُلَانٌ -
عزت میں بڑھ لگانا۔ کہا جاتا ہے۔
"هُوَ مَكْرُوطُ الْحَسَبِ" اس کے
حساب میں عیب لگایا گیا ہے۔

كُرْعٌ دَفٌّ، وَكُرْعٌ دَسٌّ، كُرْعَا وَكُرْعَا -
فِي الْمَاءِ أَوْ الْإِنَاءِ - پانی یا برتن
میں منہ لگا کر پانی پینا۔

كُرْعَةٌ دَفٌّ، كُرْعَا - پینڈی پر تیر مارنا۔
كُرْعٌ كُرْعَا - پینڈی کی تکلیف میں مبتلا
ہونا۔ پایہ کھانے کا شوقین ہونا۔

بَارِكٌ پِنْدَلِي وَالْأَهْلُ - الْمَسَاقُ -
پینڈی کے اگلے حصہ کا باریک ہونا۔
كُمْرَتِ السَّمَاءِ - آسمان کا بارش
برسانا۔

أَكْرَهَةُ الصَّيْدِ - غکار کا قریب اور
دستر میں ہونا۔

أَكْرَهٌ - الْقَوْمُ - منہ لگا کر پینے کے قابل
پانی پانا۔

تَحْكُوهُ - الرَّجُلُ - اطراف پر پانی
بھانا۔

الْمَكْرُوهُ - مَمٌّ - منہ لگا کر پینے کے قابل پانی۔
جانور کی ٹانگیں۔ ذیل اوباش انسان
کہیں یہ لفظ واحد و جمع دونوں کے
پے متعل ہے۔ رَجُلٌ كُرْعٌ وَ
رِجَالٌ كُرْعٌ دونوں طرح کہا جاتا
ہے۔

الْكُرَاعُ - مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ - گائے
بکری کے پائے (مذکورہ مؤنث) اور
بقول بعض الْكُرَاعُ مِنَ الدَّوَابِّ -

ٹخنوں سے نیچے کا حصہ۔ وَالْكُرَاعُ
مِنَ الْإِنْسَانِ - گھٹنے سے نیچے کی
پنڈی کا اگلا حصہ ہے۔ ج۔ الْكُرْعُ
وَالْكَارِعُ۔

الْكُرَاعُ - گھوڑے، انچر، گدھے، برہیز
کا کنارہ۔ كُرَاعُ الْأَرْضِ - زمین
کا گوشہ۔ کہا جاتا ہے۔ "لَمْ يَشْ فِي
كُرَاعِ الْبَطْنِ" راستے کے
کنارے پر چلو۔

أَكَارِعُ الْأَرْضِ - زمین کی آخری حدیں
اور کنارے۔

الْكُرَاعِيُّ - پائے پیچنے والا۔
الْكَارِعُ - فلد پانی میں گھسنے والا۔ خواہ
پانی پیئے یا نہ پیئے۔

الْكَارِعَاتُ - پانی کے اوپر چھوڑا درخت
الْكَارِعَةُ - مؤنث۔ ج۔ گَارِعَاتُ -
الْكُرْيَعُ - برتن نہ ہونے کی وجہ سے اوک
سے پینے والا۔

الْكُرَاعُ - اسم مبالغہ۔ کہیوں سے دوستی
کرنے والا۔ بارش کے پانی سے سیراب
کرنے والا۔

الْمَكْرُوحُ - جانوروں کے پانی پینے کی جگہ
ج۔ مَكْرَاةٌ۔

فَرَسٌ مَكْرُوحٌ الْقَوَائِمِ - مضبوط اور
سخت ٹانگوں والا گھوڑا۔

الْمَكْرُوحَةُ - مِنَ الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا -
پانی میں لگایا ہوا درخت۔

كُرْفٌ دَنْ، كُرْفٌ دَكْرَفٌ وَ
أَكْرَفٌ - الْحِمَارُ وَغَيْرُهُ - گدھے
کا پیشاب کو سونگھ کر سر اٹھانا، اور
ہونٹوں کو بٹھانا۔

الْكُرْفُ - ایک ہی چمڑے کا ڈول۔
كُرْفَاتُ الْقَدْرِ - مٹھی کا اپنے کے
یہ جھاگ نکالنا۔

كُرْفَاءُ الْقَوْمِ - قوم کا خط ملط ہونا۔

تَكْرَفٌ السَّحَابِ - بادل کا تہ بہ تہ ہونا۔
الْكُرْفُ - اوبی بادل۔ كُرْفَةٌ - اوبچے
بادل کا ٹکڑا۔ انڈے کا اوپر کا حصہ۔
السَّكْرَفُ - بد صورت۔

كُرْفَسٌ كُرْفَسَةٌ - بیڑی پڑے ہوئے کی
طرح چلتا۔ الْبُيُوتُ - اونٹ کو تنگ
باندھنا۔

تَكْرَفَسٌ - ملنا۔ ایک چیز کا دوسری چیز میں
داخل ہونا۔

الْكُرْفَسُ - رُوئی۔
الْكُرْفَسُ - ابوان (دخیل)

الْكُرْكِيُّ - سارس۔ ج۔ كُرْكِيٌّ۔
الْكُرْكْدُنُ - گینڈا۔ اس کو میز مینس
بھی کہتے ہیں۔ عوام كُرْكْدُنِ کہتے
ہیں۔

كُرْكُرٌ كُرْكُرٌ - الشَّيْءُ - کسی چیز کو بار
بار دوہرانا۔ اعادہ کرنا۔ الرَّحْلِي
چکی گھمانا۔ الْحَيْثُ - دانہ پینا۔

الشَّيْءُ - کسی چیز کو جمع کرنا۔ الرَّجُلُ
کسی آدمی کو قید کرنا۔ فِي الْفَحْلِكِ
بہت ہنستا۔ الرَّجُلُ - ہنستا۔

شَكْسَتْ کھانا۔ الْبَرِيَاخُ السَّحَابِ -
ہوا کا بادل کو اڑا دینا۔ بادل کو منتشر
کرنے کے بعد اسے اکٹھا کرنا۔

الْأَمْرُ عَنْهُ - دفع کرنا۔ بٹھانا۔ رو کرنا۔
بِالْدَّجَا جَوٍّ - مرغی کو پکار کر بلانا۔

تَكْرُكٌ - فِي الْأَمْرِ - کسی کام میں تردد
کرنا۔ الْمَاءُ - پانی کا نالیوں میں

لوٹ جانا۔ الطَّائِرُ - پرندے کا
فضا میں مڑلانا۔

الْكُرْكُ - ایک آبی پرندہ۔

الْكُرْكُ - مَمٌّ - گاڑھا دودھ۔ پیٹ
کی گڑ گڑاہٹ۔

الْكُرْكُ - مَمٌّ - مَمٌّ - والے جانور کا سینہ۔

لوگوں کی جماعت۔ ج۔ كُرْكِيٌّ۔



گھوڑے کے جوڑ۔

اَلْكُرُورَةُ: گہری وادی۔

اَلْكُرْكُوسُ الشَّيْءِ: رد کرنا۔ بٹھانا۔

اَللَّائِيَةُ: جو پائے کو باندھنا۔ و

اَلْكُرْكُوسُ الْاِنْسَانِ: اوپر سے نیچے پڑھنا۔

اَلْكُرْكُومَةُ: زعفران: صطگی۔ ایک نباتات

کی جڑ کہ وہ درس ہے یا اس کے

منشاہ۔

اَلْكُرْكُومَةُ: سرخ رنگ کا گوند۔ گینڈا۔

اَلْكُرْمُ دَلَّ: اَلْكُرْمُ دَلَّ اَلْكُرْمَةَ وَ اَلْكُرْمَةَ: گروم دیک

معز و شریف ہونا۔ آسانی سے دینا۔

بخشش کرنا۔ فیاض ہونا۔ السَّحَابُ:

بارش لانا۔

اَلْكُرْمَةُ دَلَّ اَلْكُرْمَةَ: کرم میں غالب ہونا۔

کہا جاتا ہے۔ کادَمَةُ اَلْكُرْمَةَ:

اس نے اس سے کرم میں مقابلہ کیا

اور غالب آگیا۔

اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ: تعظیم کرنا۔

عزت دینا۔

اَلْكُرْمُ: السَّحَابُ: بادل میں بہت پانی

ہونا۔

اَلْكُرْمَةُ: کرم میں مقابلہ کرنا۔

اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ: میں نے اس کے پاس

تحفہ بھیجا تاکہ وہ مجھے اس کا بدلہ دے۔

اَلْكُرْمُ: شریف اولاد والا ہونا۔ اَلْكُرْمَةُ:

کسی کی تعظیم کرنا۔ اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ:

اَلْمَعَاصِي: اپنے آپ کو گناہوں

سے بچانا۔ اور محفوظ رکھنا، تعجب

کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے

”مَا اَلْكُرْمَةُ لِي“: وہ میری کس قدر

زیادہ تعظیم کرتا ہے۔ مگر یہ فعل رباعی

ہونے کی وجہ سے شاذ ہے۔

اَلْكُرْمُ: بہ تکلف کرم کرنا۔ و اَلْكُرْمَةُ:

عَنْ كَذَا: بچنا۔ دور رہنا۔

اَلْاِسْتِكْرَامُ: عمدہ چیزوں کا انتخاب کرنا۔

اَلْاِسْتِكْرَامُ: الشَّيْءِ: عمدہ چیز طلب کرنا۔ کریم

پانا۔

اَلْكُرْمُ: مصر: درگزر، بخشش۔ فیاضی۔ ہار

میں ایک قسم کی کارگیری۔

اَلْكُرْمُ: صفت بمعنی کریم و طیب۔ یہی

لفظ واحد جمع، مذکر و مؤنث سب

کے لیے مستعمل ہے۔ جیسے رَجُلٌ

كُرْمٌ و نِسَاءٌ كُرْمٌ و اَرْضٌ

كُرْمٌ۔

اَلْكُرْمُ: انگور کی بیل۔ گنجان درختوں والا

باغ جس کے چاروں طرف دیواریں

ہوں رعایہ، جہ۔ كُرْمٌ۔ رَنْتٌ

اَلْكُرْمُ اَدَا اَلْكُرْمَةَ اَدَا اَلْكُرْمُوم

شراب۔

اَلْكُرْمَةُ: انگور کی بیل۔ یہ کرم سے

خاص ہے۔ ران کی ہڈی کا گول سرا۔

کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ كُرْمَةٌ:

کریم مرد۔

اَلْكُرْمَةُ: کہتا جاتا ہے۔ اَفْعَلُ

ذَلِكَ حُبًّا و كَرَامَةً لَكَ: میں

اسے تمہاری محبت اور تعظیم کے

خیال سے کرتا ہوں۔ اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ:

اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ: اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ:

اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ: اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ:

اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ: اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ:

اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ: اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ:

اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ: اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ:

اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ: اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ:

اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ: اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ:

اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ: اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ:

اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ: اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ:

اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ: اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ:

سے ہے۔ رَجُلٌ كُرْمٌ: سخی مرد۔

جہ۔ كُرْمٌ و كُرْمَاءُ: لفظ کریم کا

اطلاق ہر اچھی، عمدہ اور قابل تعریف

چیز پر کیا جاتا ہے۔ جیسے رَزَقٌ

كُرْمٌ۔ اچھی روزی۔ قَوْلٌ

كُرْمٌ۔ عمدہ بات۔ رِكَابٌ

كُرْمٌ۔ مفید اور پسندیدہ کتاب۔

وَجْهٌ كُرْمٌ۔ پاکیزہ چہرہ۔

اَلْكُرْمَانِ: حج و جہاد۔

اَلْكُرْمَةُ: كُرْمٌ و كُرْمَاءُ و كُرْمٌ:

اَلْكُرْمَةُ: ہر عضو شریف، جیسے ہاتھ

اور کان۔

اَلْكُرْمَتَانِ: دونوں آنکھیں۔ كُرْمَةٌ

اَلْكُرْمَةُ: بیٹی۔

اَلْكُرْمَةُ: کرم اور شرافت والا۔ جیسے

قُلُوبٌ كُرْمَةٌ قَوْمٌ: فلاں اپنی

قوم میں شریف ہے۔ اس میں تاء

مبالغہ کے لیے ہے۔

اَلْكُرْمَةُ اَلْكُرْمَةَ: کرم اور بہترین مال۔

اَلْكُرْمَةُ: کریم۔ جہ۔ كُرْمٌ و كُرْمٌ:

اَلْكُرْمَةُ: انگور کی بیل والا اور اس کی

نگہبانی کرنے والا۔

اَلْكُرْمَةُ و اَلْكُرْمَةُ: بہت زیادہ کرم

کرنے والا۔ جہ۔ كُرْمٌ و كُرْمٌ:

اَلْكُرْمَةُ: کریم۔ بہت وسیع اخلاق

والا۔ یہ ندا ہی کے لیے مخصوص ہے

اس طرح کہا جائیگا۔ یا مَكْرُمَانِ۔

اَلْكُرْمَةُ و اَلْكُرْمَةُ: شریف۔ فیاض۔

جہ۔ مَكَارِمُ۔ اَرْضٌ مَكْرُمَةٌ

بِلُتَبَاتٍ: عمدہ درخیز زمین۔

اَلْمَكْرُمُ و اَلْمَكْرُمَةُ: کریمانہ فعل۔

کریم۔ کہا جاتا ہے۔ فِعْلٌ اَلْخَيْرِ

مَكْرُمَةٌ: نیک کام کرم یا تعظیم کا

ذریعہ ہے۔



الْمَكْرِيَّةُ - او گھنڈ والا۔ کرایہ پر لینے والا۔
کرایہ پر دینے والا۔ جہ۔ مکاروں۔
اب اکثر گھسے اور پھر والوں پر بولا
جاتا ہے۔

الْمَكْرِيَّةُ - مِنَ الْإِبِلِ - آہستہ اور
نرم رفتار اونٹ۔

كُزِّرَ، كُزَّرَ - الشَّيْءُ - تنگ کرنا۔

كَزَّرَتْ خَطَاةً - اس کے قدم قریب ہو
گئے۔ الْعَصَاةُ مُجْمَعًا - عورت کا

بازو بند سے بازو کو بھردینا۔ كُزَّازَةٌ
وَكُزُوزَةٌ - مسکرتا۔ خشک ہونا۔

كُزِّرَ - سردی سے لرزہ طاری ہونا۔ زکام ہونا
اَكُزَّ - اللہ خَلَا تَا - اللہ کا کسی کو لرزہ

دیکھنے کی بیماری، میں مبتلا کرنا۔ صفت
مفعول - مَكُزُّوسٌ۔

اَكُتَّرَ - مسکرتا۔

اَسْكُرُ - مہم - مسکڑا ہوا۔ خشک۔ کہا جاتا
ہے "وَجْهٌ كُزِّرٌ" بد صورت

چہرہ۔ ذَهَبٌ أَوْ جَمَلٌ كُزِّرٌ -
بہت ٹھوس یا مضبوط سونایا اونٹ۔

فُلَانٌ كُزِّرٌ أَيْدَايْنِ - فلاں بخیل
ہے۔ جہ۔ كُزِّرٌ۔

اَلْكُزَّةُ - كُزِّرٌ کا مومن ہے۔ کہاوت
ہے "قَدْ جُنَّ كُزَّةٌ" ایسی کبان

جس کی کڑوی خشک ہے، مرنے نہیں
ہے۔ بَكُزَّةٌ كُزَّةٌ - سخت و

تنگ چرخی۔

اَلْبَكُزِيُّ - بخل کچھو سی۔
اَلْبَكُزِيُّ - اَلْبَكُزِيُّ - سخت سردی سے

لرزتا ہوا۔ ایک بیماری
کُزِّرَ بَشَرٌ كُزِّرًا - پانوں کی پٹریوں کا چھوٹا

ہونا اور تنگ کرنا۔
اَلْكُزَّةُ وَالْكُزَّةُ - دھنیا کا پودا۔

دھنیا کو جلیان بھی کہتے ہیں۔
كُزِّرَ دِينَ، كُزِّرَ مَا - منہ بند کرنا اور خاموش

رہنا۔ الْجَوَزَةُ وَتَحْوَهَا - اخروٹ
وغیرہ کو اگلے دانتوں سے توڑنا اور
گری نکالنا۔

كُزِّرَ مَا - دانتوں سے سخت کاٹنا۔

كُزِّرَ دَسْ كُزِّرًا - بخیل ہونا۔ بہت
شائق ہونا۔ ناک یا انگلی کا چھوٹا

ہونا۔ صفت اَكُزِّرُ - پیش قدمی
سے ڈرنا۔

كُزِّرَ - اَلْبَرْدُ أَصَابَعَهُ - سردی کا
انگلیوں کو سیکنے۔

اَكُزِّرَ - سکیڑا۔ الطَّعَامُ - بہت
کھانا۔ یہاں تک کہ خواہش باقی نہ

رہے۔

تَكُزِّرُ - اَلْعَاكِيَهَةُ - بھل کو چھیلے بغیر
کھانا۔

اَلْكُزِّرُ - تنگ پھیلی۔ چھوٹی انگلیوں والا۔
اَكُزِّرُ - بخل۔ بہت کھانا۔ ناک یا انگلیوں

کی کوتاہی۔ گھوڑے وغیرہ کے ہونٹ
کی چھوٹائی اور موٹائی۔ کہا جاتا ہے۔

"فِي يَدَيْهِ كُزِّرٌ" اس کے ہاتھ
بھلائی کے لیے نہیں کھلے ہوئے ہیں۔

اَلْكُزِّرُ - مِنَ الْبِرِّجَالِ - بزدل ڈریوک
اَكُزِّرَ مَا - مِنَ الْبِرِّجَالِ - اتنا کھانے

والا کہ اسے ناپسند کرنے لگے۔
اَلْمُتَكُزِّرُ - چھوٹی پھیلی اور پاؤں والا۔

كُسَّ (ن) كُسًا - باہ یک کوٹنا تاکہ وہ
ستوں کی طرح ہو جائے۔

كُسَّ دَسْ، كُسَّسَا - چھوٹے دانت ہونا
تالوں کا چھوٹا ہونا۔ صفت اَكُسُّ

بُؤْرَتُ كُسَّاسٍ - جہ۔ كُسُّ -
اَلْكُسْبِيُّ - کڑی زبردستی۔ شکر۔ بیوقوف

بعض جوانان چہنہ سے مٹی ہوئی خراب
کھجور کی مینہ۔ خشک کیا ہو گوتیت

جسے سفر میں توشہ کے لیے کوٹ کر
ستوں کی طرح باریک کر لیتے ہیں۔

اَلْكُسْبِيُّ - مفعول۔ لٹی ہوئی روٹی۔
كُسَّ كُفَّ، كُسَّ - پیچھا کرنا۔

كُسَّ - اَلدَّائِبَةُ - چوپائے کو بانگنا۔
اَلْقَوْمُ - جھگڑے میں غالب آنا۔

كُسَّاهُ - بِالسَّيْفِ - تلوار سے مارنا۔
اَلْكُسَّاءُ - مِنَ الْكَيْلِ - رات کا ایک حصہ۔

اَلْكُسُّ وَالْكُسُوءُ - مِنَ كُلِّ شَيْءٍ -
پچھلا حصہ۔ جہ۔ اَكُسَّاهُ - کہا جاتا

ہے كَتَّ كُسَّاهُ - وہ گردن کے بل
گرا۔ اَتَيْنَا فِي اَكُسَاءِ الشَّهْرِ -

ہم مہینے کے آخر میں آئے۔ مَرُّوا
فِي اَكُسَاءِ الْمُتَخَمِّزِينَ أَوْ عَلٰی

اَكُسَاءِ تَحِيحٍ - وہ شکست خوردہ
جماعت کے نقش قدم پر اور ان کے

پیچھے گزرے۔

كَسَبَ رِضًا، كَسَبًا وَكَسَبًا وَتَكَسَّبَ
وَلَا تَكَسَّبَ - مَالًا أَوْ عِلْمًا - مال

یا علم حاصل کرنا۔ طلب کرنا۔ نفع
حاصل کرنا۔ اَلشَّيْءُ - کسی چیز کو جمع

کرنا۔ اَلْإِثْمُ - بارگناہ اٹھانا۔
اَلْأَهْلِيَّةُ - اہل و عیال کے لیے روزی

تلاش کرنا۔

كَسَبَ وَكَسَبَ وَكَسَبَ - فُلَانًا
مَالًا أَوْ عِلْمًا - کسی کو مال یا علم

حاصل کرانا۔
اَسْتَكْسَبَ وَتَكَسَّبَ - فُلَانًا -

کہانی کرنا۔
تَكَسَّبَ - اَلْبُحْلُ - کمانے کی کوشش کرنا

اَلْكُسْبُ - مہم۔ کہانی۔
اَلْكُسْبَةُ وَالْكُسْبَةُ - کہانی۔

اَلْكَا سِبُ - اِسْمُ نَاعِلٍ،
اَلْكَا سِبَةُ - کاسب کا مومنٹ۔ جہ۔

كُؤَا سِبُ -
اَلْكُؤَا سِبُ - انسان یا پرندے کے اعضاء



الْكُسُوبُ وَالْكُسَابُ - بہت کمائی کرنے والا۔

الْمَكْسِبُ وَالْمَكْسِبَةُ وَالْمَكْسَبَةُ - کمائی۔ جہ۔ مَکْسِبٌ۔

الْمَكْسَبَرُ - دھنیا۔

كُسْرٌ رَفٌّ كُسْحًا - البَيْتُ گھریں جھاڑو دینا۔

كُسْحَتِ الرَّيْحُ الْأَرْضَ - ہوا کا زمین سے مٹی اڑانا۔ الشَّيْءُ - کسی چیز کو قطع کرنا اور تباہ کرنا۔ کہا جاتا ہے۔

”أَتَيْنَا بَنِي فُلَانٍ فَكُسَحْنَا هُمْ“ ہم فُلَان کے بیٹوں کے پاس آئے اور ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔

كُسْرٌ رَسٌ كُسْحًا - ہاتھ پاؤں کی جرس و حرکت کا معطل ہونا۔ ایک پاؤں کے بھاری ہونے پر گھسٹ کر چلنا صفت اَكْسَحُ - جہ۔ كُسْحَانٌ - کہا جاتا ہے۔ ”مَا أَكْسَحَهُ“ وہ کس قدر بوجھل ہے۔

كَاسَحَهُ مَكَاسَحَةً - بہت سخت جھگڑا کرنا۔

اَلْكُسْرُ - الشَّيْءُ - لے جانا۔ کہا جاتا ہے ”أَعَارُوا عَلَيَّ حِمْلًا فَكُسِرُوا“ انھوں نے ان پر غارت کی اور ان کا سارا مال لے گئے۔

الْمَكْسَرُ - مہم۔ عاجزی۔

الْمَكْسَاخَةُ - کوڑا کرکٹ۔ ہاتھ پاؤں کی بے حسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

الْمَكْسِيَةُ - وہ شخص جس سے تم مدد طلب کرو مگر وہ تمھاری مدد نہ کرے۔

الْاَكْسَرُ - ہاتھ پاؤں کی بے حسی والا۔ لنگڑا لنگی۔ جہ۔ كُسْحَانٌ

الْمَكْسِيَةُ وَالْمَكْسِيَةُ وَالْمَكْسَانُ - یعنی اَكْسَرُ - ہاتھ پاؤں کی بے حسی والا۔ لنگڑا۔ لنگی۔

الْكُسَامُ - اونٹوں کی ایک بیماری۔

الْمَكْسَحَةُ - جھاڑو۔

الْمَكْسَحُ - جھیل کر صاف کیا ہوا جیسے عودٌ مُكْسَحٌ - تراشی ہوئی مکرطی۔

الْمَكْسُوحُ - مفع۔ جَبَلٌ مُكْسَحٌ - سخت لنگڑا اونٹ۔

كَسَدَ وَكَسَدَنَ كَسَادًا وَكُسُودًا -

الشيءُ - گاہکوں کی کمی کی وجہ سے رائج نہ ہونا۔ جیسے كَسَدَتِ الشُّوقُ -

بازار کا مندا ہونا۔ شے کی صفت۔

كَاسِدٌ وَكَسِيدٌ - وَالشُّوقُ

كَاسِدٌ وَكَاسِدَةٌ وَكَاسِدٌ -

اَلْكَسَدُ الْقَوْمُ - قوم کے بازار کا مندا ہونا

اَلْكَسَدُ الشُّوقُ - بازار کا مندا ہونا۔ اَلْكَسَدُ الشَّيْءُ - کسی چیز کا مندا ہونا۔

اَلْكَسَدُ الْغَنَمُ إِلَى الْغَنَمِ - واپس ہونا۔ لوٹنا۔

اَلْكَسَدُ - قسط۔ ایک دو کا نام ہے۔

الْمَكْسِيدُ - مندا بھوٹا۔ گھٹیا۔

كُسْرٌ رَسٌ كُسْرًا - الْعُودُ وَكُلُّ صُلْبٍ

تَوْرًا - الْعَشْكُ - اشکر کو شکست

دینا۔ الْوَصِيَّةُ - وصیت کو توڑنا

اور منسوخ کرنا۔ مخالفت کرنا۔

الْبَقْعُ - شعر کا وزن درست نہ کرنا

اور اسے توڑ دینا۔ الطَّائِرُ جَنَاحِيْلُو

پرنڈے کا اڑنے کے لیے پروں کو سمیٹنا۔ الْحَرْقُ - حرف کو زبردیا۔

- الْيُوسَادَةُ - تکیہ کو موڑ کر سہارا لینا۔

الْمَتَاعُ - سامان کا ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ بیچنا۔ مِنْ

طَرَفِهِ وَهَلَى طَرَفِهِ - یعنی نظر کرنا

- فَلَا تَأْنِي مَرَادًا - کسی کو اس کے مقصد سے پھیرنا۔

كُسْرٌ - دحل، كُسُورًا - الطَّائِرُ - پرنڈے

کا اترنے کے لیے پروں کو سمیٹنا۔

كُسْرٌ رَسٌ كُسْرًا - کابل اور سست ہونا۔

كُسْرٌ - یعنی كُسْرٌ مجرد، مبالغہ اور تاثیر کے لیے تشدید ہے۔

كُسْرَتِ الْيَمْرِ - وَنَحْوَهَا الْفُورُ

عَلَى كَذَا فَتَكُسُرُ - آئینے اس پر روشنی ڈالی اور اس پر روشنی پڑ گئی۔

كُسْرٌ - الْكَلِمَةُ - جمع کسرینا اور اصطلاح

اہل صرف

كُسْرٌ - الْكِتَابُ عَلَى عِدَّةِ أَبْوَابٍ -

کتاب کو چند ابواب پر تقسیم کرنا۔

تَكُسُرُ - لُوطًا - الشَّيْءُ - کسی چیز کو توڑنا۔

اَلْكَسْرُ - لُوطًا - الْعَشْكُ - لشکر کا

شکست کھانا اور منتشر ہونا۔ صفت

دونوں لحاظ سے مَكْسُورٌ ہے۔ اور

مَكْسُورٌ نہیں بولا جاتا۔ الْعَرُ -

گرمی کم ہونا۔ الْعَرِجِيُّ - گندھے

ہوئے اٹے کا نرم ہونا اور خمیر ہو جانا

- عَيْنُ الشَّيْءِ - کسی چیز سے عاجز ہو جانا۔

اَلْكَسْرُ - الشَّيْءُ - کسی چیز کو توڑنا۔

اَلْكَسْرُ - زبیر کی حرکت۔ بہت کم۔ فی

الْحِسَابِ - ایک سے کم کا عدد جیسے

۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰

اور موڑ اس آخری معنی کی صورت میں اس لفظ کا واحد مستعمل نہیں ہوگا،
هَذِهِ الْأَرْضُ ذَاتُ كُسُورٍ۔ یہ زمین اونچی نیچی ہے۔
الْكُسْرَةُ۔ کسر کا اسم مرہ۔ زیر کی حرکت شکست۔ وَقَعْتُ عَلَيْهِمُ الْكُسْرَةَ۔ وہ شکست کھا گئے۔
يَعْنِيهِ كُسْرَةُ مِنَ السَّهْوِ۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہے۔ ج۔
كُسْرَاتٌ وَكُسْرَاتٌ۔ کسروی و کسروی۔ ایران کے قدیم بادشاہوں کا لقب۔ ج۔ آگاسیو۔
وَكَسَا سِرَّةً وَكُسُورٌ۔ صفت نسبتی کسروی و کسروی و کسروی۔
الْكُسَارُ وَالْكُسَارَةُ۔ مِنَ الْخَطْبِ وَنَحْوِهِ۔ ایندھن کی چپٹیاں، اور ٹکڑے۔
الْكُسِيرُ۔ ٹوٹا ہوا۔ ج۔ کسروی و کساری۔
الْإِكْسِيرُ۔ وہ چیز جو چاندی وغیرہ کو سونا بنادے۔
التَّكْسِيرُ۔ انجینیروں کے نزدیک پیمائش کو کہتے ہیں۔
الْمَكَا سِيرُ۔ ج۔ کُسْرُ۔ عقاب۔ کہا جاتا ہے عقاب کا سیر۔ چھٹا مارنے والا یا شکار کو توڑ دینے والا عقاب۔
الْمَكَا سِيرَةُ۔ کاسر کا مؤنث۔ ج۔
الْمَكَا سِرَاتٌ وَكُسُورٌ وَكُؤَا سِيرُ۔
الْمَكُؤَا سِيرُ۔ شکاری پرندے۔
الْمَكْسَارُ۔ اسم مبالغہ۔ بہت توڑنے والا۔
الْمَكْسِيرُ۔ توڑنے کی جگہ۔ مَکْسِيرُ الشَّجَرَةِ۔ درخت کی جڑ یا درخت کا تنہ، جہاں سے ٹہنیاں توڑی جائیں ج۔ مَکَا سِيرُ۔ آزمائش۔ کہا جاتا

ہے۔ فَلَانٌ طَيِّبُ الْمَكْسِيرِ۔ فلاں آزمائش کا وقت اچھا ہے۔
الْمَكَا سِيرُ۔ مِنَ الْيَحْيِرَانِ۔ پڑوسی جس کے مکان کا حصہ تمہارے مکان کے حصہ سے ملا ہوا ہو۔ کہا جاتا ہے "هُوَ جَارِي مَكَا سِيرِي"۔ وہ میرا پڑوسی ہے جس کے گھر کا حصہ میرے مکان کے حصہ سے ملتی ہے۔
الْمَكْسَرُ۔ مفع۔ الْمَكْسَرُ مِنَ الْأَفْرَدِيَّةِ۔ وادی کی وہ گھاٹیاں اور موڑ جن میں سیلاب آگیا ہو۔ الْجَمْعُ الْمَكْسَرُ۔ جمع سالم کی ضد جس میں واحد کے حروف ٹوٹ گئے ہوں۔
جیسے رَجُلٌ سَے رَجَالٌ۔ مَسْجِدٌ سَے مَسَاجِدٌ۔
الْمَكْسُورُ۔ مفع۔ صَوْتُ مَكْسُورٍ۔ نرم و کمزور آواز۔
الْمَتَكْسِيرُ۔ فَا۔ کہا جاتا ہے "رَأَيْتُهُ مُتَكْسِرًا"۔ میں نے اسے سُست اور شکستہ دیکھا۔
كَسَعَهُ رَفٌّ، كَسَعًا۔ دھتکارنا۔
دھتکارتے ہوئے پیچھا کرنا۔ پشت پر ہاتھ پالات مارنا۔
كَسَعٌ۔ السَّيْفِيَّةُ فِي الْخِيَرِ۔ کشتی کو دھکیلنا اور چلانا۔
كَسَعَهُ۔ يَكْدُا۔ کسی کو اپنا تابع بنانا۔
کہا جاتا ہے "وَرَدَّتْ الْخَيْلُ يَكْسَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا"۔ گھوڑے اس حالت میں آئے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ لَا تَبِعَ فَلَانٌ أَزْدَادَهُمْ يَكْسَعُهُمْ بِالسَّيْفِ۔
فلاں آدمی ان کے پیچھے گیا۔ ایسی حالت میں کہ تلوار کے ذریعہ انھیں باہر دھکیل رہا تھا۔ كَسَعَتْ الدَّجَلُ بِمَا شَاءَتْ۔ میں نے گفتگو کے آخر

میں اس آدمی سے ایسی بات کہی جو اسے بُری لگی۔
كَسَعَتْ دَاكُسَعَتْ۔ الْخَيْلُ بِأَذْنَانِهَا۔ گھوڑوں کا ٹانگوں میں دم دبا لینا۔
تَكْسَعُ۔ فِي ضَلَالَةٍ۔ گمراہی میں جانا۔
التَّكْسَعُ۔ گھوڑوں کے کھڑکے پاس جوڑوں کے ارد گرد سفیدی۔
الْكُسَعُ۔ روٹی کے ٹکڑے۔
الْكُسْعَةُ۔ پیشانی پر سفید داغ۔ پند کی دم کے نیچے سفید پر۔ ج۔ كُسْعُ۔ کام کرنے والے بیل گڑھے۔ غلام۔
الْأَكْسَعُ۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ کھڑکے پاس جوڑوں کے ارد گرد سفیدی۔ گھوڑا۔
- مِنَ الطَّيْرِ۔ دم کے نیچے سفید پر والا پرندہ۔
رَجُلٌ مُكْسَعٌ۔ غیر شادی شدہ مرد۔
كَسَفَتْ رَضًى كَسْفًا۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے کاٹنا۔
اللَّهُ الشَّمْسُ أَوْ الْقَمَرُ خُدا کا چاند سورج میں گمن لگانا۔
بَصَرًا۔ نگاہیں نیچی کرنا۔ الشَّمْسُ النُّجُومُ۔ آفتاب کی روشنی کا ستاروں پر غالب آنا۔ الشَّمْسُ۔ کسی چیز کو ڈھانکنا۔ پوشیدہ کرنا۔
كَسَفَهُ الْحُزْنُ وَغَيْرُهُ۔ رنج و غم وغیرہ کا مسلط ہونا۔
كَسَفَتْ رَضًى كُسُوفًا۔ الشَّمْسُ۔ سورج میں گمن لگانا۔ وَجْمَةٌ۔ تیورھی چڑھنا۔ متغیر ہونا۔ خَالِدٌ۔ حالت کا خراب ہونا۔ كَسَفَ أَمَلُهُ۔ امید منقطع ہونا۔ كَسَفَ بَالُهُ۔ دل کا برائی کی طرف آمادہ ہونا۔ امید منقطع ہونا۔
تَكَسَفَتِ الشَّمْسُ۔ آفتاب میں گمن لگانا۔



لَا تُكْسِفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ - چاند سورج میں گم نہ لگتا۔

الْكُسْفُ - بمعنی عرب کی کماوت ہے اَكْسَفًا وَلَا مُسَاكًا - کیا ترشروئی اور بخل بھی ہے۔ یہ کماوت ترشروئی بخل کے لیے مستعمل ہوتی ہے۔

الكَاسِفُ - فَا - کہا جاتا ہے - "فُلَانٌ كَاسِفٌ أَلْبَالُ" - فلاں بُرے حال میں ہے۔ کَاسِفٌ أَوْجَرٌ - ترشرو۔ يَوْمٌ كَاسِفٌ - سخت اور خوفناک دن۔ رَجُلٌ كَاسِفٌ - رنجیدہ مرد جو رنج و غم کی وجہ سے دہلا اور تڑھال ہو گیا ہو۔

الْكُسْفَةُ - مَكْرًا - جہر - كُسْفٌ وَكُسْفٌ وَكَسْفٌ - مَكْرًا -

كُسْفٌ كُسْفٌ كُسْفٌ - الشَّيْءُ بِسَخْتِ كُتَانِ - اَلْكُسْكَاؤُ - موٹا پستہ قدمرد۔

اَلْكُسْكَاؤُ - بمعنی - وقف کی حالت میں کاف صغیر مؤنث کے ساتھ میں ملانا جیسے پیکس وَاكْرَمُ مَكْسٌ - بَلَدٌ اَوْ اَكْرَمُ مَكْسٌ کے بجائے یہ لفظ لغت بنو تميم ہے،

اَلْكُسْكُؤُ - ایک کھانا ہے جو آٹے سے بنایا جاتا ہے۔

كَيْسِلٌ رَسٌ، كَيْسِلًا وَتَكَاسَلٌ - سُت - ہونا۔ جس کام میں سستی نہیں کرنی چاہیے اس میں سستی کرنا۔ صفت کيسلٌ و كَسْلَانٌ - جہر - كَسَالِيٌّ وَكَسَالِيٌّ - كَسِيلِيٌّ - مؤنث كَيْسَلَةٌ وَكَسْلَانَةٌ - كَسِيلِيٌّ -

اَكْسَلُ الْأَمْرِ فُلَانًا - سُت بنانا۔

اَلْكَسَالَةُ - بیکاری۔

اَلْكُسُولُ - سُت - کابل۔ ناز پروردہ۔ وہ لڑکی جو ایک جگہ بیٹھی رہے۔

اَلْكَيْسَلُ وَ اَلْيَكْسَلُ - دُھنیا کے کان تھما جبکہ اتار دی جائے۔ نَمِيبٌ وَكَيْسَلٌ - وہ نسب جسے سرداری اور اچھے کاموں میں خود داری اور غیرت مندی کا وصف حاصل نہ ہو۔

اَلْمَكْسَلَةُ - سُت پیدا کرنے والا۔ سبب۔ کہا جاتا ہے - "الشَّيْءُ مَكْسَلَةٌ" - شکم سیری سستی کا باعث ہے۔ فُلَانٌ لَا تَكْسِلُهُ اَلْمَكَايِلُ - فلاں کو کابلی کے اسباب سُت نہیں بناتے۔

اَلْيَكْسَالُ - سُت (مذکورہ مؤنث) خوشحال لڑکی جو اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔

كَسَمَ رَضًى اَكْسَمًا - اَلْيَايِسُ - خُفْكَ چیز کو ہاتھ سے ریزہ ریزہ کرنا۔

عَلَى عَيْالِهِ - اہل و عیال کے لیے کمانے میں محنت کرنا۔ نَاسَمُ اَلْخُرُوبُ - لڑائی کی آگ بھڑکانا۔

اَلْكُسْمُ - خُشْک چیز کا چورہ جو ہاتھوں میں باقی رہ جائے۔

اَلْكُسُومُ - کام کو پورا کرنے والا۔ اَلْكُسُومُ - بہت کھا جائے۔ کہا جاتا ہے

"هَذِهِ رَوْضَةٌ كَيْسُومٌ" وَ اَكْسُومٌ وَ يَكْسُومٌ - یہ سرسبز و شاداب باغ ہے۔ کھیل اَکَا سَمُ

بہت سے گھوڑے جو ایک دوسرے کے اوپر ہوں۔

كَسَا يَكْسُو اَكْسُوًا وَ اَكْسِي - اَلثَّوْبُ فُلَانًا - کسی کو کپڑے پہنانا۔ كَسَاكَ يَشْعُرًا - اشعار کے ذریعہ تعریف کرنا۔

كَسِي يَكْسِي وَ كَيْسِي كَسًا - اَلثَّوْبُ کپڑا پہنانا۔

كَسِي يَكْسِي كَسَاءً - شریف ہونا۔

تَكْسِي تَكْسِيًا - یا تَكْسَاءُ - اوڑھنا پہنانا۔

كَاسِي مَكَا سَاءً - فُلَانًا - ایک دوسرے پر فخر کرنا۔

اَلْكَتْسِي - لباس پہنانا۔ اَلْكَتْسِي اَلْأَرْضُ بِالْبَنَاتِ - زمین کا پردوں سے چھپ جانا۔

اَلْكَتْسِيَةُ ثَوْبًا - کپڑے پہنانا۔

اَلْكَتْسِي فُلَانًا - کسی سے لباس مانگنا۔

اَلْكَايِسِي - فَا - لباس پہننے والا۔ جہر۔

كَسَاءٌ - برہنہ کا عکس۔

اَلْكَسَاءُ - شرافت و بزرگی۔

اَلْكِسَاءُ - کپڑا۔ کبل۔ جہر۔ اَلْكَيْسِيَةُ -

اَلْكُسُوءُ وَ اَلْكَيْسُوءُ - لباس۔ جہر۔

كُسِي وَ كَيْسِي -

اَلْاَكْسِي - بہت پہننے والا۔ بہت لباس دینے والا۔ عرب کی کماوت ہے "هُوَ اَكْسِي مِنْ بَيْضَةٍ" - یہ اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ کپڑے پہنا ہوا ہو۔

اَلْكُسِي - پشت کا بچھلا حصہ۔ ہر چیز کا بچھلا حصہ۔ جہر۔ اَلْكَسَاءُ - کہا جاتا ہے

يَذْكَبُ اَكْسَاءَةً - وہ بچھل گردن کے بل گرا۔

كَشَى رَضًى اَكْشَا وَ كَشِيْنَا اَكْشَا نَكَلْتِ

وقت سائیں سائیں کی آواز نکلا۔ اَلجَرَّةُ - شراب کے مٹکے میں جوش آنا۔

كَشَتِ كَعْبِيْنَا - اَلْحَيَّةُ - سانپ کی کھال سے آواز نکلا۔ اَلجَبَلُ - اونٹ کا پہلی مرتبہ بڑ بڑانا۔ اَلْبَقَرَةُ - گائے کا آواز نکالنا۔ كَشَا الرَّجُلُ وَ غَيْرُهُ - کسی آدمی وغیرہ کو دھتکارنا دھمکانا۔

كَكَشَتِ اَلْاَفَاعِي - سانپوں کا آپس میں آواز نکالنا۔

اَلْكُشُ - وہ چیز جس سے کھجور کے درخت



کو پھیلانے کے لیے پیوند لگایا جائے
 ایکٹشہ پشانی یا سر کے اگلے حصہ کے
 بالوں کا ٹھیکہ۔

المکتبہ شمس خراب کے عوش کی آواز۔
کشادہ کٹھا۔ اشیاء کسی چیز کو چھپانا
کسی چیز کو اگلے دانوں سے کٹڑی کی
طرح کاٹ کر کھانا۔ فلاناً بالشیف
تھلوار سے مارنا۔

اَكْثَمَ اللَّحْمِ: گوشت بھون کر خشک کرنا۔ صفت مفعول: کِشَی۔
کِشَاءُ: الوجُلُ یعنی ہوئے گوشت کا ٹکڑا کھانا۔

کُتِبَتْ - کُفًءٌ وَكُفْءًا - یَدٌ لَّ - بِأَمْرِهِ
کا پھٹنا یا اس کی جلد کا سکڑنا - کہاں
میں حمزیاں ہونا ۔

كُفَّاءٌ وَكُشْيٌ كُشَاءٌ وَكُشَاءٌ وَكُشَاءٌ -
الرَّجُلُ مِنَ الطَّعَامِ شَمِ سِيرِيُونَا -
صَفَتُ كُشْيٌ وَكُشْيٌ -

لَکَیْشَ - الشَّیْءُ. کسی چیز کا پھل جانا۔
اللَّحْمُ خَشک بھنا ہوا گوشت کھانا۔

کَافًا تَلْكُمُوهٗ - اللَّحْمَ خَشَكُمْ بِهَا
... گوشت کھانا.

اَلْكَشَاءُ عُبَّ: عیب: کہا جاتا ہے۔ ”مَا فِي
جَسَدِهِ كَشَاءٌ“: اس کے جسم میں
کوئی عیب نہیں ہے۔

کَشَب (من) کَشْبَاد کَشَب .. اللَّحْمَ
بہت کھانا۔

الکشتبان - دزنی کا انگشتانہ - ج
کشتابین - دھڑا الکشتبان
ایک قسم کا پودا -

الْمَكْشُوتُ وَالْمَكْشُوتُ وَالْمَكْشُوتُ
الْمَكْشُوتُ ع. ایک قسم کی گھاس ہے
جو کانٹوں اور درختوں پر لپٹی ہوتی ہے
نہ اس کی جڑ ہوتی ہے نہ اس کے
پتے ہوتے ہیں۔

کشتہ زخم کشمیا۔ البیت گھریں
جھاڑو دینا۔ القدم قوم کو منتشر کرنا
اور نکالنا۔ عین المساء۔ پانی سے
واپس ہونا۔ لہ بالعدۃ۔
دشمنی رکھنا۔ اللہ ایلہ چوپائے
کادونوں ٹانگوں کے درمیان دم
دبانا۔ الطائر۔ پرندہ کا تیزی سے
واپس آنا۔ الظلام والضوء۔
تاریکی یا روشنی کا زائے ہونا۔

کشم - العود: لکڑی کو چمیلنا -
البحیر: اونٹ کے پلوں آگ
سے درخ لگانا۔

کَشَحَہ - پہلو میں داغ لگانا۔
کَشِیح - الرجل - پہلو داغ دیا جانا۔
سفت معنوی مَکْشُوح۔

کُشْتَرَةُ الْقَوْمِ مَعْنِ الْمَاءِ : پانی کے چشمہ سے منتشر ہونا۔

گشیم (دس) گشخا۔ پلو میں دردہنا۔
 کاشیم کیشاخا و مکاشخہ۔ فلاں
 بالعداوت۔ دشمنی رکھتا۔

انكشتم - انقوم عن الماء. منتشر ہونا
پراگندہ ہونا۔

الکشف۔ پلو۔ ج۔ کشور۔ کہا جاتا ہے ”طوی کشہ“ عن فلان
 اوطوی کشا عنه“ اس نے

پہلو تپیل اور کنارہ کشی اختیار کی۔
 طوی کُشَحَہ، عَلٰی الرَّمْرِ۔ اس
 نے کام جاری رکھا۔

الکسٹرجر۔ پہلو کی بیماری جس کا علاج داغ لگانے سے کیا جاتا ہے۔ بقول بعض ذات الجنب کی بیماری یعنی نمونیا کو بھی کہتے ہیں۔

الکاشمیر - قا۔ پوشیدہ عداوت رکھنے والا۔ بقول بعض وہ شخص جو دشمنی کی بنیاد پر پہلو تہی کرے یا وہ جو کنارہ کشی

اختیار کیسے

الکیشاسر. پہلو کا داغ۔

الْكُشَاةُ: پوشیده دشمنی.

ایمکشاہ والیمکشاہ۔ تتلوار کی دھار۔
ایمکشاہ۔ کلہاڑا۔

کَمَشَدَ (ض) کَشَدَ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو
دانتوں سے کاٹنا۔ التَّاقَّةُ۔ اونٹنی
کو تین انگلیوں سے دوہنا۔

اُگشَد۔ خالص مکھن بنانا۔

الكفدة^٩ مكن

الکاشد الکشود والکغد۔ اہل و
عیال کے لیے بہت محنت سے روزی
کمانے والا۔ ج۔ کشد۔

کَشْرُ رَسَدٍ کَشْرًا - عَنْ اَمْسَايَہ - مَسِي
وِغْرِهِ مِيں دانت نکالنا - اِسْمِ اس کا
اَلْکَشْرَةُ ہے - اَلْسَبْعُ عَنْ نَارِیہ

دروندے کا مقابلے کے لیے دانت نکالتا۔ فلاں لہ۔ درندے کی طرح کسی کو دھمکانا۔

کثیر رس، کثرا۔ بھاگنا۔

گشّہ۔ عَنِ اسْتَانِیْہ۔ بمعنی دانت نکالنا۔
اس میں تشدید مبالغہ کے لیے ہے۔

کَاشِرَةٌ مُكَاشِرَةٌ - آپس میں ہنستا اور
دانت نکالنا۔

الْكَشْرِ - كَشْرٌ عَنْ أَنْيَابِهِ - دھکی دینا۔
الْكَشْرُ مَصْرُوعٌ سَوَكِيٌّ رَوِيٌّ۔

المكشّر۔ انگور کا خوشہ جس کے انگور کھائے
جا چکے ہوں۔

السَّكَاثِرُونَ. الْجَارُ الْمَكَاثِرُ. قَبِي
 پڑوسی۔

کھٹ (رض) کھٹا و استکشط -
الشیء کسی چیز سے اس کا ٹھکنا اتارنا

المُجَلَّ عَنْ الْفُرْسِ وَالْغَطَاءِ
عَنِ الشَّيْءِ كَهَوِّهِ كَجَهْلٍ يَأْكُسِي
بِهِزْ كَ دُحْنَةٍ كَوَاتَارِنَا - الْحَرْفُ



حرف کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔
الْبَعِيْرُ۔ اونٹ کی کھال اتارنا۔
تَكْشَطُ۔ السَّحَابُ فِي السَّمَاءِ۔ آسمان
میں بادل کا قطرے ہونا اور بکھر جانا۔
اِنْكْشَطَ۔ كَشَطَ کا تابع۔ اتارا جانا۔
الْوُجُحُ۔ خوف زائل ہونا۔
الْكُفَّاطُ۔ قصائی۔

الْكُشَاكُلُ۔ انکشاف۔ اتری ہوئی کھال۔
الْكُشَطَةُ۔ کھال اتری ہوئی اونٹوں کے
مالکان۔

كَشَعَ رَفٌ، كَشَعًا۔ الْقَوْمُ قَتِيلٌ۔
قوم کا مقتول کو چھوڑ کر منتشر ہو جانا۔
كَشَعَ دَسٌ، كَشَعًا۔ تَنَگْ ہونا۔ بدل
ہونا۔

كَشَفَ رَضٌ، كَشَفًا دَكَا شِفَةً۔ الشَّيْءُ
وَعَنِ الشَّيْءِ۔ ظاہر کرنا۔ کھولنا۔ کہا
جاتا ہے: كَشَفَ اللّٰهُ غَمَّهُ "اللہ
اس کے غم کو زائل کرے۔
كَشَفَتْهُ الْكَوْاشِفُ۔ یعنی اسے رسوا
کر دیا۔

كَشِفَ دَسٌ، كَشَفًا۔ شَكْسَتْ کھانا۔
الرَّجُلُ او الْفَرَسُ۔ کھلی پیشانی
والا ہونا۔

كَشَفَ۔ الشَّيْءُ۔ کھولنا۔ ظاہر کرنا۔
فَلَانًا عَنِ الْأَمْرِ۔ کسی کو ظاہر کرنے
پر مجبور کرنا۔

كَاشَفَهُ بِكَذَا۔ کسی بات سے خبردار
کرنا۔ ظاہر کرنا۔ يَا الْعَدَاوَةَ
كَلِمَ كَلَامًا دُشْمَنِي کا اظہار کرنا۔

اَكْشَفَ۔ ہنسنے میں مسوڑھوں کو نمودار
کرنا۔

اِنْكْشَفَ الشَّيْءُ۔ ظاہر ہونا۔

تَكْشَفَ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا ظاہر ہونا۔

الْبَرْقُ۔ بجلی کا آسمان پر پھیلنا۔

الرَّجُلُ۔ کسی آدمی کا رسوا ہونا۔

تَكَاشَفَ۔ الْقَوْمُ۔ ایک پر دوسرے کے
عیب کا ظاہر کرنا۔

اِكْتَشَفَ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا کھولنا۔

ظاہر کرنا۔ اسی سے "اِكْتِشَافَاتٌ"
وہ نئی تحقیقات جو امور طبیعیہ و صناعیہ
میں ظاہر ہوں۔

اِسْتَكْشَفَ۔ عَنِ الشَّيْءِ۔ کسی چیز کو
ظاہر کرنے کو کہنا۔

اَلْكُشْفُ۔ مَصْرُ۔ اہل عروض کے نزدیک
ساترین متحرک کو گرا دینا۔

اَلْكُشْفُ۔ سر کے اگلے حصے کے بال گر
جانا۔ فِي الْخَبْلِ۔ ٹھوڑے کے دم
کے بالوں کی پیچیدگی

اَلْكُشْفَةُ۔ سر کے اگلے حصے کی وہ جگہ
جہاں سے بال گرتے ہوں۔

اَلْكَا شِفُ۔ فَا۔ کھولنے والا۔ جہ۔
كَشَفَةٌ۔

اَلْكَاشِفَةُ۔ مَصْرُ۔ کاشف کا مؤنث۔
رسوائی۔ جہ۔ كَوَاشِفُ۔

اَلْكُشَافُ۔ اسم سالخہ کہتے ہیں "هُوَ"
كُشَافُ الْغَمِّ۔ وہ غموں کا
زائل کرنے والا۔

اَلْاِكْشَفُ۔ وہ جس کے سر کے بال گر
گئے ہوں۔ وہ گودے جس کی دم کے
بالوں میں پیچیدگی ہو۔ وہ شخص جس کے

پاس لڑائی میں نہ ڈھال ہونے خود ہو۔
لڑائی میں شکست خوردہ۔

اَلْكُشْفَاءُ۔ انکشاف کا مؤنث۔
اَلْكُشَيْفُ۔ بمعنی ہلکا شوق۔ کھلا ہوا۔

ظاہر۔
اَلْكُشْكُ۔ جُوكَا پانی۔ آش جو۔

اَلْكُشْكُ۔ عوام کے نزدیک ایک قسم کا
کھانا جو موٹے سنو کو دودھ میں بھگو کر

خمیر اٹھنے کے بعد پکایا جاتا ہے۔
ایک قسم کی گنبد دار عمارت جو گھر کے

باقی حصے سے زیادہ ابھری ہوئی ہو۔
(درخیل)

كُشْكُشُ كُشْكُفَةٌ۔ بھاگنا۔ الْحَيَّةُ۔
سانپ کا اپنی کھال سے آواز نکالنا۔

اَلْكُشْكُشَةُ۔ مَصْرُ۔ ضمیر کا خطاب مؤنث
کو شین سے بدل دینا ہے۔ جیسے

"اَكْرَمْتُكَ وَعَلَيْكَ كَيْ بَجَائِ
اَكْرَمْتُشْ وَعَلَيْشْ بولنا۔

اَلْكُشْكُولُ وَ اَلْكُشْكُولَةُ۔ بھکاریوں کا
چنبیل جس میں وہ اپنی بھیک کا کھانا

وغیرہ رکھتے ہیں۔ ہاء الدین آملی کی
کتاب کا نام کشول ہے، اسی لیے کہ

اس میں مختلف موضوعات پر مضامین
ہیں۔

كَشَمَ رَنٌ، كَشَمًا وَكَشَمًا وَ اَلْكُشَمَ۔
الْاَنَفُ۔ ناک جڑ سے کاٹنا۔

كَشَمَ دَسٌ، كَشَمًا۔ کسی کی خلقت یا
خاندان میں عیب ہونا۔ صفت۔
اَلْكُشَمُ۔

كَشَمَ رَضٌ، كَشَمًا۔ الْقَتَاؤُ اِدَا الْجَوْنَ
گلڑی یا گاجر بہت شوق سے کھانا۔
اَنَفٌ كُشَمٌ وَ اَلْكُشَمُ۔ جڑ سے

کٹی ہوئی ناک۔

اَلْكُشَمُ وَ اَلْاَكُشَمُ۔ تہنڈا۔
كُشَمَرُ۔ رونے کے لیے آمادہ ہونا۔

اَنَفُهُ۔ اپنی ناک کو توڑ دینا۔
كُشْمَبِيرُ۔ کشمیر کے علاقہ کا نام۔ جہاں

کپڑے عمدہ ہوتے ہیں۔
كُشْمَشِي۔ کشمش۔ ایک دانہ کو كُشْمَشَتَ

کہتے ہیں۔
كُشَاهُ يَكُشُوهُ كُشَوًا۔ منہ سے کاٹ

کر نکالنا۔
اَلْكُشِيَّةُ۔ گوہ کے پٹ کی چربی یا اس کی

دم کی جڑ۔ جہ۔ كُشْيَ۔
كُصَ رَضٌ، كُصًا۔ الْقَوْمُ۔ لوگوں کا جمع



ہونا۔ کَظِیضًا۔ المَاءُ بِالنَّاسِ۔
پانی پر لوگوں کی بھڑ ہونا۔ كَظًا و
کَظِیضًا۔ الصَّوْتُ۔ آواز کا
باریک ہونا۔

اَكْضَ۔ بھاگنا اور شکست کھانا۔
تَكَاضَ وَلَا تَكْتَضِ۔ القَوْمُ۔ لوگوں کا جمع
ہونا اور بھڑ کرنا۔

اَلْكَصِیضُ۔ مہم۔ سخت تکلیف کی وجہ سے
پیچ و تاب۔ خوف و پریشانی۔ اضطراب
ٹڈی کی آواز۔ موٹا پستہ قدم۔ مکروہ۔

اَلْكَصِیضَةُ۔ جماعت۔ ہرن کے شکار کا
چھنڈا۔ ج۔ كَصَا یُصِلُ۔

كَصَصَ۔ تیز چلنا۔
كَصَفَ (رض) كُصُوْمًا۔ پیٹھ موڑنا۔ پشت
دکھانا۔ كَصُمًا۔ دانتوں سے کاٹنا۔
اَلرَّجُلُ۔ کسی کو سختی سے بٹھانا۔

كَصَلَى یَكْصِي كَفِیًّا۔ رفت کے بعد
خمیس ہونا۔

كَصَلَ (ن) كَصَلًا۔ بٹھانا۔ دور کرنا۔
كَظَرَ (ن) كَظًا۔ اَلطَّعَامُ فَلَا تَا۔ زیادہ
کھانے سے سانس نہ لے سکا۔

اَلْغِیْظُ صَدْرُهُ۔ غصے میں بھرا ہوا
ہونا۔ اَلْحَبَلُ۔ رسی باندھنا۔
خَصَمَهُ۔ چاروں طرف سے گھیر لینا

تاکہ نکلنے کا راستہ نہ ملے۔ كَظَا ظَا
وَكَظَا ظَةً۔ اَلْأُمُورُ فَلَا تَا۔ رنج
پہنچانا۔ بوجھل کرنا۔ اَلْمِیْلُ بِالْمَاءِ

پانی کی کثرت کی وجہ سے بہاؤ کی جگہ
کا تنگ ہونا۔

كَاطَهُ كَظَا ظًا دُمَا ظَةً۔ جنگ میں
سخت جم کر طویل عرصہ تک مقابلہ کرنا۔
تَكَاطَ۔ القَوْمُ۔ میدان جنگ میں دشمنی

میں حصہ سے گزرنا۔
لَا تَکْظَا۔ مِنَ الطَّعَامِ۔ زیادہ کھانے
سے سانس نہ لے سکا۔ اَلْمِیْلُ

بِالْمَاءِ۔ پانی کی زیادتی کی وجہ سے
بہاؤ کی جگہ کا تنگ ہونا۔ اَلْمَسَلُ
جگہ کا لوگوں سے بھر جانا۔

اَلْكَظَةُ الْغِیْظُ۔ بہت غصے میں ہونا۔
اَلْكَظَةُ۔ بد معنی شکم پُری کی تکلیف۔
اَلْكَظَاذُ۔ مہم۔ یقین سبقتی۔ غم۔ عداوت۔

اَلْكَظُ۔ مہم۔ رَجُلٌ كَظٌ۔ سخت گیر
مرد۔ وَاَلْكَظِیْظُ دَا لِمُكْظُظٍ وَا
اَلْمُكْظُظُوطُ۔ کام میں گھرا ہوا۔ بہت

غضبناک۔
اَلْكَظِیْظُ وَاَلْمُكْظُظُوطُ۔ شکم میر
اَلْكَظِیْظُ۔ بھڑ۔ انہوہ۔ کہا جاتا ہے۔

”تَعْلَىٰ بَابُ فَلَانٍ كَظِیْظًا“ فلاں
کے دروازے پر بھڑ ہے۔ طَعَامٌ
مُكْظَلٌ۔ بد معنی دلا کھانا۔

كَظَبَ (ن) كَظَبًا۔ بہت موٹا ہونا۔
كَظَرَ (ن) كَظَرًا۔ اَلْقَوَىٰ۔ کمان
نے کنارے پر تانت لگانے کے لیے

دندانہ بنانا۔ اَلزُّنْدَةُ۔ چتھاق میں
دندانہ بنانا۔

اَلْكَظَرُ۔ کمان کے کناروں پر تانت کا
حلقہ لگانے کی جگہ۔ گردہ کی چربی۔
وَاَلْكَظَرَةُ۔ گردہ کی جگہ۔ جبکہ

گردے نکال لیے جائیں۔
اَلْكَظَرُ یَسْلُیٰ کِیْ یُذِیٰ کے درمیان کی جگہ۔
كَظَمَ (رض) كَظَمًا۔ اَلْبَابُ۔ دروازہ

بند کرنا۔ اَلنَّهْوَ۔ نہر کو روکنا۔
اَلْقَوِیَّةُ۔ مشک بھرنے اور منہ باندھنا
۔ اَلْبَعِیْرُ بِالْكَظَامَةِ۔ اونٹ کو

نکیل ڈالنا۔ اَلشَّیْءُ دَعَىٰ اَلشَّیْءُ۔
کسی چیز کو روکنا۔ كُظُوْمًا اَلْبَعِیْرُ
اونٹ کا جگالی کرنے سے روکنا کہتے

ہیں۔ ”مَا كَظَمَ فَلَانٌ عَلَی جَرَّتِهِ“
فلاں کے پیٹ میں بات نہیں بچتی۔
كَظَمَ كُظُوْمًا۔ غِیْظًا۔ غصہ کو

پی جانا۔

كَظَمَ كُظُوْمًا۔ چُپ رہنا۔

اَلْكَظَمُ۔ سانس کی نالی۔ ج۔ اَلْكَظَامُ ر
كَظَامٌ کہتے ہیں۔ ”اَخَذَ بِكَظْمِهِ“
اس کو رنج میں مبتلا کر دیا۔

اَلْكَظَامُ۔ دویز جس سے کسی چیز کو بند کیا
جائے۔ کہا جاتا ہے۔ ”اَخَذَ بِكَظَامِ
الْأُمْرِ“ اس نے بھروسہ کے لائق

کام کو اختیار کیا۔
اَلْكَظَامَةُ۔ وادی کا دامن۔ اونٹ کی
نکیل۔ نراز کی رسیوں کا حلقہ۔ کہا

جاتا ہے۔ ”عَقَدَ اَلْغِیْظُوطُ فِی
اَلْمِیْزَانِ“ اس نے نراز کی ڈڈی
کے دونوں حلقوں میں دھاگے

باندھ دیے۔
اَلْكَظَامَةُ۔ زمین کے اندر پانی کی نالی۔
كَظَامَةُ اَلْبَابِ۔ دروازہ بند

کرنے کی چیز۔ ج۔ كَظَا یُظِمُّ و
اَلْكَظِیْمَةُ۔ دور قریب کے کنوؤں
کے درمیان دور نالی۔ اَلْكَظِیْمَةُ۔

توشہ دان۔ ج۔ كَظَا یُظِمُّ۔
اَلْكَظِمُ۔ نا۔ خاموش۔ ج۔ كُظَمُ۔
بَعِیْرٌ كَاظِمٌ۔ پیاسا اونٹ۔

اِبِلٌ كُظُومٌ۔ وہ اونٹ جو جگالی
نہ کرے۔
اَلْكَظِیْمُ وَاَلْمُكْظُظُومُ۔ مصیبت زدہ۔

اَلْكَظِیْمُ۔ دروازہ بند کرنے کی چیز۔
كَظَا یَكْظُوا كَظَوًا۔ لَحْمُهُ، گوشت
سخت ہونا

تَكَظَىٰ۔ لَحْمُهُ سَمَنًا۔ فرہی کی وجہ سے
گوشت کا بلند ہونا۔ اَرْضٌ كَاظِیْمَةٌ
خشک زمین۔

كَظَرَ (ن) كَظًا وَاَلْكَظَامَةُ۔ اَلْكَظَامَةُ۔
د کیعوعوع۔ کمزور ہونا۔ بزدل ہونا۔
اَلْكَظَرُ۔ فَلَانٌ کسی کو خوف دلانا۔ بزدل بنانا۔

- فِي كَلَامِهِ - گفتگو میں رُکنا۔
 الْخَوْفُ فَلَا تَأْ - ارادہ سے روکنا۔
 الْمَكْمُ وَالْكَاعُ - کمزور۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے: "فَلَانٌ كَعٌ أَوْجُهُ" فلاں شُبک رُخسار ہے۔
 كَعْبَتُ رَنْ ص، كَعُوبًا دَعُوبَةً وَ كَعَابَةً - الْحَارِيَّةُ - لڑکی کی پستانوں کا اُبھرنا۔ كَعْبًا - الْإِنَاءُ - برتن بھرنے۔ خَلَاءُ - کسی کو سرد وغیرہ پر مارنا۔
 كَعَبَ الْإِنَاءُ - برتن بھرنے۔ الشَّيْءُ - کسی چیز کو مکعب بنانا۔
 كَعْبَتِ الْحَارِيَّةُ - لڑکی کی پستانوں کا اُبھرنے۔
 الْكَعْبُ - تیزی سے چلنا۔
 الْكَعْبُ - جہ - كَعُوبٌ - دو پودوں کے درمیان کی گرہ۔ نیزہ کی گرہ۔ ہر بلند و مرتفع چیز۔ بزرگی اور شرافت۔ کہا جاتا ہے: "أَعْلَى اللَّهِ كَعْبُهُمْ" اللہ ان کی شان بلند کرے۔ وَذَهَبَ كَعْبُهُمْ - ان کی عزت جاتی رہی رَجُلٌ عَالِي الْكَعْبِ - بڑی شان و شوکت والا مرد۔

الْكَعْبُ - کہیں کا پانسہ۔ گھی کا ٹکڑا۔ برتن کا باقی ماندہ دودھ۔ جہ - كَعْبٌ وَ كَعَابٌ -

الْكَعْبُ - فِي عِلْمِ الْهَيْدَسَةِ - وہ مجسم جس کی چھ مربع مساوی سطحیں ہوں۔ جہ - كَعَابٌ وَ كَعُوبٌ وَ الْكَعْبُ -

الْكَعَابُ - نرو کے ہرے۔ واحد كَعْبٌ وَ كَعْبَةٌ -

الْكَعْبُ - ابھری ہوئی پستان
 الْكَعْبَةُ - نو کے کہیں کا بڑا مہرہ۔ ہر مربع گھر۔ جھروکہ، خانہ کعبہ بیت اللہ

الْحَرَامُ جو مکہ میں ہے۔ جہ - كَعَابٌ وَ كَعَابَاتٌ -
 الْكُعْبَةُ - لڑکی کی دوشیزگی اور بکارت۔
 جَارِيَّةٌ كَعَابٌ وَ مُكْعَبٌ - ابھری ہوئی پستانوں والی لڑکی۔ کہا جاتا ہے وَجْهٌ مُكْعَبٌ -
 الْكَاعِبُ - مِنَ الْجَوَارِي وَالشَّدَى - ابھری ہوئی پستانوں والی لڑکی۔ یا ابھری ہوئی پستان - جہ - كَعَابٌ -
 الْمُكْعَبُ - وہ مجسم جس کی چھ سطحیں ہوں اور لمبائی، چوڑائی، موٹائی سب برابر ہوں۔ حساب میں کعب عدد وہ ہے جو چو گنے کا حاصل ضرب ہو جیسے آٹھ، دو کا کعب ہے۔ ثَلَاثِي مُكْعَبٌ - ابھری ہوئی پستان دینے والا ہے،
 مُكْعَبَةٌ - کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی زینیل جو کھجوریں رکھنے کے لیے کام میں لائی جاتی ہے۔
 كَعْبُورَةُ كَعْبُورَةٌ - بِالسَّيْفِ تلوار سے کاٹنا۔
 الْكَعْبُورَةُ - مَم - مِنَ النِّسَاءِ - عجمی اکھڑ عورت۔
 الْكُعْبُورُ - مِنَ الْعَصَلِ - شہد جو شہد کے چھتے میں جمع ہو۔
 الْكُعْبُورَةُ - سحنت گرہ دار بڑی بندوبست گوشت کا ٹکڑا۔ ہر جمع شدہ چیز۔ سرکی جڑ۔ موٹا سرین۔ گیہوں کا کوڑا کرکٹ جو صاف کرتے وقت پھینک دیا جاتا ہے۔ (ونٹ کا پانا خانہ جو اس کی دم پر خشک ہو جائے۔

كُعْبُورَةُ الْكَيْتِفِ - مونڈھے کا گول حصہ۔
 كُعْبُورَةُ الْوُطَيْفِ - پٹلی کے نیچے حصہ کے پٹنے کی جگہ۔ جہ - كَعَابُورُ -
 الْكَعَابُورُ - بڑیوں کے سرے۔
 الْكُعْبُورَةُ - گرہ - جمع شدہ کھانے کی

الْكُعْبُورَةُ - بزدل۔ کمزور۔
 تَكْعَلُ - التَّمَرُ وَ خَمُوءُ - کھجور وغیرہ کا ایک دوسرے کے ساتھ گتھا ہوا ہونا۔
 الْكُعْلُ - مالدار۔ کنجوس۔ وَ الْكُعْلُ - سیاہ

الْكُعْلُ - بزدل۔ کمزور۔
 تَكْعَلُ - التَّمَرُ وَ خَمُوءُ - کھجور وغیرہ کا ایک دوسرے کے ساتھ گتھا ہوا ہونا۔
 الْكُعْلُ - مالدار۔ کنجوس۔ وَ الْكُعْلُ - سیاہ

چیزوں میں سے جو پھینک دیا جائے۔
 أَلْعَتُ الرَّجُلُ - تیز چلنا۔ بیٹھنا۔ غصہ سے پھول کر سوار ہونا۔
 الْمَلْعَتُ - پستہ قدمرد۔ مَوْنَتُ كَعْتَةٍ -
 الْمَلْعَتَةُ - شیشی کا سر بند۔
 كَعْتَرُ - تیز چلنا۔ تیز دوڑنا۔ فِي مَشْيِهِ -
 مستانہ چال چلنا۔ چلنے میں لڑکھڑانا۔
 الْمَلْعَتَرُ - چڑیا کی مانند پرندہ۔
 كَعْرُوسُ - كَعْرَا - الْصَبِي - بچہ کا پُر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔
 كَعْرُ وَ الْكَعْرُ - الْبَعِيرُ - اونٹ کے کوہن میں گرہ دار چربی ہونا۔
 الْكَعْرُ - کوہن - الْكَعْرَةُ - غدود کے مانند گوشت میں گرہ۔
 كَعْرُنُ - كَعْرَا - انگلیوں سے کسی چیز کا جمع کرنا۔
 كَعْسَبُ كَعْسَبَةٍ - الرَّجُلُ - دوڑنا۔
 بھاگنا۔ تیز چال۔ مستانہ چال چلنا۔
 كَعْسَمَ كَعْسَمَةٍ - پیٹھ دے کر بھاگنا۔
 الْكَعْسَمُ - گورخر۔ جنگلی گدھا۔ جہ - كَعَا سِمُ وَ كَعَا سِمُ -
 كَعَطَلُ كَعَطَلَةٍ - تیز دوڑنا۔ پیدہ

انگڑائی لینا اور ہاتھ پھیلانا۔
 الْكَعْلُ - کیک۔ واحد - كَعْلَةٌ - جہ كَعَاكُ - (دخیل)
 كَعْلَمُ كَعْلَعَةٍ - الرَّجُلُ - کسی آدمی کو اس کے راستے سے روکنا۔ كَعْلَعَةٌ -
 عَنْ كَذَا - کسی چیز سے باز رکھنا۔
 فِي كَلَامِهِ - گفتگو میں رُکنا۔
 تَكْعَلَمُ - رک جانا۔ بزدل ہونا۔

الْكَعْلَمُ - بزدل۔ کمزور۔
 تَكْعَلُ - التَّمَرُ وَ خَمُوءُ - کھجور وغیرہ کا ایک دوسرے کے ساتھ گتھا ہوا ہونا۔
 الْكَعْلُ - مالدار۔ کنجوس۔ وَ الْكَعْلُ - سیاہ

الْكَعْلُ - بزدل۔ کمزور۔
 تَكْعَلُ - التَّمَرُ وَ خَمُوءُ - کھجور وغیرہ کا ایک دوسرے کے ساتھ گتھا ہوا ہونا۔
 الْكَعْلُ - مالدار۔ کنجوس۔ وَ الْكَعْلُ - سیاہ

ک

ٹھنگنا۔ دلپیتہ قدم مرد۔

المُكَيَّلُ - عضو سے پھولا ہونا۔

کَعَمَدٌ (دَف، کَعَمًا)۔ الْوَعَاءُ۔ بَرْتَن کا
منہ باندھنا۔ الْبُعْبُورُ۔ اونٹ کا منہ
بند کرنا۔ تَاکَمَ وہ نہ کاٹ سکے نہ لھا
سکے۔ الْخَوْفُ قُلَانًا۔ خوف کا کسی
کو روکنا تاکہ وہ لپٹ نہ سکے۔

الْكَعَامُ ج - كَعْمٌ وَالْكَعَامَةُ :
 تھو تھنی جس سے اونٹ کے منہ کو
 باندھ دیتے ہیں تاکہ کھا اور کاٹ
 نہ سکے۔

کَعُومٌ - الطَّرِيقُ - راستے کے دھانے
بَعِيرٌ مَّكْعُومٌ - تھوڑی چڑھا یا ہوا
اونٹ۔

اَلْكَعَنَ - الرَّجُلُ - سَتَ بِنَا مُسْتَعْدِي
میں کمی ہونا۔

تَكْعُنْشِ - الطَّائِرُ - پرندہ کا جال میں
پھنسنا - فُلَانٌ فِي الشَّيْءِ - کسی چیز
میں مستغرق ہونا۔

گَعَايِكُوعُوا كَعُوَا - بندول ہونا۔

الکامیابی - فاشکت خوردہ -

الاکٹاء۔ بزدل لوگ۔

الكاغْدُ والكاغْدُ - كاغْدُ -

اَلْكَافِرُ غَدِيٌّ - کافر غیبی ہے والا۔

كَفَتْ (ن)، كَفًّا و كَفَافَةً - التوبہ
 کپڑے کی گوٹ کو ننگ کرنے کے بعد
 دوبارہ سینا - كَهًّا - الإِنَاءُ -
 برتن کو بہت بھرا - الشَّيْءُ - جمع کرنا
 - رَجْلُهُ - پاؤں میں چھینٹا لپیٹنا -
 - الْقِبْلَةُ - قبلہ کے ایک گوشہ کو
 اختیار کرنا - مَاءٌ وَجْهَهُ - آبرو
 بچانا اور سوال نہ کرنا - عَنِ الْأَمْرِ -
 کسی کام سے روکنا - باز رہنا -

گفتہ۔ عَنِ الْأَمْرِ۔ کسی کو کسی کام سے روکنا۔

گَعَّهٖ كَهَوْفًا۔ اِنْتَاقَہٗ۔ اونٹنی کے
 بڑھا پے کی وجہ سے چھوٹے دانت
 ہونا۔

كَفَّ وَكُفَّ - بَصَرَ فِ - اِنْدَهَا هَوْنًا .
 تَلَكَّفَ - اِنْتَأَسَ - لوگوں سے ملنے کے
 لیے ماتھے پھیلانا - الرَّجُلُ - کسی چیز
 کو ہاتھ میں لینا یا مٹھی بھر کھانا - یا
 بھوک روکنے کے لائق کھانا - مَا تَكُنَّا
 - عَنِ الْأَمْرِ - کسی کام کو چھوڑنا -
 دَمَعُهُ - آنسو کا رگنا -

تکلیف۔ عَنِ الْأَمْرِ۔ کسی کام سے باز
رہنا۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کو
روکنا۔

اِنْكُفَّ - باز رہنا۔ رکنا۔ عَنِ الْمَكَانِ
جگہ چھوڑ دینا۔

اِسْتَكَلْتُ - اَلْمَشَىٰ: کسی چیز کو ہاتھ میں
لینا۔ اَلنَّاسَ: لوگوں کے سامنے
ملنے کے لئے ہاتھ بھیلانا۔

اِسْتَنْكَفَ - عَنِ الشَّيْءِ - کسی سے باز رہنے کی درخواست کرنا - النَّاسُ حَوْلَهُ - لوگوں کا دیکھنے کے لیے اس کے چاروں طرف جمع ہونا -

اِسْتَكْمَلَةِ الْحَيَاةِ۔ سانپ کا کنٹولی مارنا
- التا ظوم۔ دھوپ سے بجھنے کے

یہ بھڑوں پر ہاتھ رکھتا۔ عَيْنُهُ
 دیکھنے کے لیے آنکھ پر ہاتھ کا سایہ
 کرنا۔ عَيْنُهُ ہاتھ کے نیچے سے
 دیکھنا۔ فُلَانٌ بِالْصَّدَقَةِ صدقہ
 مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا۔ رِبْلُهُ
 النَّاسُ لوگوں کا اسے چاروں
 طرف سے گھیر لینا۔ الشَّعْرُ
 بالوں کا جمع ہو جانا۔ الشَّيْءُ کسی
 چیز کا گول ہونا۔

اَلْكَفُّ مَصْرُوعَةٌ يَسْتَحِيلُ اَنْ تَكُونَ
سَمْتًا جَزْءًا اَلْكَفُّ وَكُفُوٌّ وَ

کُفّ۔

كَفَّ السَّبْعُ وَكَفَّ الْكَلْبُ وَكَفَّ
الذِّئْبُ وَكَفَّ مَرْيَمُ وَكَفَّ
آدَمُ وَكَفَّ الْأَسَدُ - وَكَفَّ
الضَّبُعُ وَكَفَّ الْقَرْدُ وَكَفَّ
الْأَجْرُمُ وَكَفَّ الْجُرْمَاءُ وَ
كَفَّ عَائِشَةُ - یہ سب پودوں
اور گھاس کی قسمیں ہیں۔

الکفۃ: نعمت۔ اہل عروض کے نزدیک
ساتویں ساکن حرف کا ساکن کر دینا۔
جیسے فاعلاتن کا فون۔

الْكُفَّةُ. كفّ کا اسم مرہ۔ کُفَّةٌ
الْمِيزَانِ۔ ترازو کا پلڑا۔ دبافتح ایک
روایت کے مطابق کہتے ہیں ”رَأَيْتُهُ
كُفَّةً كُفَّةً لِمَنْ بِنِ بَرْنَجٍ وَكُفَّةً
لِكُفَّةٍ وَكُفَّةً عَنِ كُفَّةٍ“ میں نے
اسے آٹے سے دیکھا۔

ایک دفعہ ہر گول چیز گڑھا جس میں پانی جمع ہو۔ **مِنَ الْبِیِّنَاتِ**۔ ترازو کا پلٹا۔ **تَشْنِیْہِ کِفْتَانِ**۔ **مِنَ الدَّفِ** ڈھول یا دف کا ڈھانچا۔

کِفَّةُ الصَّائِدِ. شکاری کا جال۔ ج۔
کِفْتُ وَكُفًا۔

اَلْكِفَّةُ الْجُنُوبِيَّةُ وَالْحَقَّةُ
اَلْشِّمَالِيَّةُ۔ دوستاروں کے نام۔
کھا جاتا ہے۔ ”الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَالْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ“۔ سونے کے
بدلے سونا اور وزن میں برابر ہو۔

جَنَّتُكَ فِي كَفَلِ النَّبِيِّ - میں
رات کے شروع میں اُس کے پاس
آیا۔

الْكَلْبَةُ - کسی چیز کا کنارہ۔ گوٹ، حاشیہ۔
 - مِنَ الشَّجَرِ - درختوں کی حداور
 انتہا۔ الصَّائِدُ - شکاری کا جال
 - مِنَ النَّاسِ - لوگوں کی جماعت۔

قریب جگہ والے۔ مِّنَ الْغَيْمِ
 بادل کا کنارہ۔ مِّنَ اللَّيْلِ۔ جہاں
 دن رات ختم ہوتے ہیں، مشرق میں
 یا مغرب میں۔ مِّنَ الدَّرَجِ۔ ذرہ
 کا دامن اور نچلا حصہ۔ مِّنَ الرَّمْلِ
 ریت کا ٹیلہ جو لمبا اور گول ہو۔ مِّنَ
 الثَّوْبِ۔ کپڑے کے اوپر کی دھاری
 جس میں جھول نہ ہو۔ مِّنَ اللَّشَّةِ
 مسوڑھے کا لٹکا ہوا حصہ۔ الْقَمِيصُ
 کرتے کے دامن کے ارد گرد کی گوٹ۔
 ج۔ كُفْتُ وَكُفَاتُ۔

الْمَكْفُفُ۔ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا۔
 مِّنَ الرَّمْلِ۔ گندارے کے لائق
 روزی۔ مِّنَ الْوَشْمِ۔ گندے
 کے حلقے گڑھے جس میں چشمے ہوں۔
 الْكُفَاتُ۔ مِّنَ الرَّمْلِ۔ گندارے کے
 لائق روزی جو لوگوں کو بے نیاز کر
 دے۔ کہتے ہیں "قُوَّتُهُ كُفَاتُ"
 حَاجَتِهِ۔ اس کا گندارہ کمی بیشی کے
 بغیر اس کی ضرورت کے مطابق ہے۔
 فَلَانٌ لِّحْمُهُ كُفَاتٌ لِذِيهِ۔
 فلاں کا چمڑا اس کے بدن کے گوشت
 سے بھرا ہوا ہے۔

كُفَاتُ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کے مانند۔ کہا
 جاتا ہے "دَعْنِي كُفَاتُ" تو
 مجھے چھوڑ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا
 طَارَ الْبَرْقُ فِي كُفَاتِ السَّحَابِ
 بادل کے کناروں میں بجلی کوندی۔
 جِئْتُهُ فِي كُفَاتِ اللَّيْلِ۔ میں اس
 کے پاس رات کی ابتدا میں آیا۔
 الْكُفَاتُ۔ مِّنَ الشَّيْءِ۔ کسی چیز کا گھیر۔
 مِّنَ الثَّوْبِ۔ کپڑے کی گوٹ۔
 السَّيْفُ۔ تلوار کی دھار۔ السَّحَابُ
 بادل کا کنارہ اور اس کا نچلا حصہ۔ ہر
 وہ چیز جو کسی چیز کا مقام اتصال ہو۔

كُفَاتُ۔ مَثَلًا كُفَاتُ الْإِذْنِ۔ ج
 اَكْفَفْتُ۔
 الكاف۔ فاعل۔ ج۔ كَفَفْتُ۔ نَاقَةٌ
 کاف۔ بڑھاپے کی وجہ سے گھسے ہوئے
 دانت والی اونٹنی۔
 رَجُلٌ كَافٌ۔ اپنے نفس کو کسی چیز سے
 روکنے والا مرد۔

الْكَاثَةُ۔ کاف کا مؤنث۔ جماعت۔ کہا
 جاتا ہے "جَاءَ النَّاسُ كَاثَةً"
 سب لوگ آئے۔ اس پر الف لام
 نہیں ہوتا اور نہ اضافت ہوتی ہے۔
 بلکہ ہمیشہ حال کی حیثیت سے منصوب
 ہوتا ہے۔

الْكَاثَةُ۔ بوڑھی اونٹنی۔
 الْكُفُوْتُ۔ مِّنَ النَّوْقِ۔ بڑھاپے کی
 وجہ سے گھسے ہوئے دانت والی
 اونٹنی۔

الْمَكَاثَةُ۔ ایک دوسرے کو روکنا۔
 الْمَكْفُوْتُ۔ ج۔ مَكَاثِفُ۔ الْكَفِيفُ
 اندھا۔

الْمُسْتَكِفُ۔ گول۔
 الْمُسْتَكِفَاتُ۔ گردھوں کے چشمے۔
 اکٹھے اونٹ۔

كُفَاتُ دَفٍّ۔ کُفَاتُ۔ پھڑا۔ شکست کھانا۔
 لَوْنًا۔ عَنِ الْقَصْدِ۔ اعتدال سے
 متجاوز ہونا۔ الرَّجُلُ۔ کسی آدمی کو
 دھتکارنا۔ كُفَاتُ وَكُفَاتُ۔

الْإِنَاءُ۔ برتن کو اٹ دینا۔ اندھا
 کر دینا تاکہ جو کچھ اس میں ہے وہ
 بہہ نہ جائے۔

كَافًا۔ الرَّجُلُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ۔
 کسی آدمی کو اس کے کام میں مدد دینا۔
 - فَلَانًا۔ نگرانی کرنا۔ مقابلہ کرنا۔
 ہم پٹہ ہونا برابری کرنا۔ مدافعت کرنا۔
 - بَيْنَ الْفَرَسَيْنِ بِرُمُوحِهِ۔

ایک گھوڑے کے بعد دوسرے گھوڑے
 کو نیزہ مارنا۔

اَكْفَأُ۔ جھکتا۔ الْإِنَاءُ۔ برتن الٹ دینا
 اَكْفَاتِ الْإِبِلَ۔ اونٹ کا بست بچے
 دینا۔ الْبَيْتُ۔ گھر کا پردہ لٹکانا۔
 الشَّاعِرُ۔ شاعر کا شعر کے آخر کو
 حرف رومی کے بدلنے سے یا کسی اور
 طریقہ سے خراب کرنا۔

تَكْفَأُ۔ فِي مَشْيَتِهِ۔ چلنے میں لٹکھڑانا۔
 اَكْتَفَأُ۔ الْإِنَاءُ۔ برتن کو جھکانا۔ الٹ
 دینا۔ الْإِبِلَ۔ اونٹوں کو لوٹ کر
 لے جانا۔

تَكَاثَأُ۔ الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کے
 برابر ہونا۔

اَلْكُفَاتُ۔ الْقَوْمُ۔ لوگوں کا منتشر ہونا۔ واپس
 جانا۔ شکست کھانا۔ اِلَى كَذَا۔

جھکتا۔ الْكُوْنُ۔ رنگ کا بدن۔

اِسْتَكْفَأُ۔ فَلَانًا اِبِلَةً۔ کسی سے ایک
 سال کے لیے اونٹوں کی پیدائش مانگنا۔

اِسْتَكْفَأُ اِسْتَكْفَاتُهُ اِبِلَةً
 قَا كُفَانِيهَا۔ میں نے اس سے اس

کے اونٹ کی پیدائش کو ایک سال
 کے لیے مانگا تو اس نے مجھے اس کا

دودھ، اون اور اس کے بچے سب
 دے دیا۔

اِسْتَكْفَاتُ۔ فَلَانًا۔ میں نے اس سے
 مطالبہ کیا کہ جو کچھ اس کے برتن میں

ہے وہ میرے برتن میں انڈیل دے۔
 الْكُفَاءُ دَا الْكُفَاءُ۔ وہ حالت جس

کے ذریعہ کوئی چیز دوسری چیز کے برابر
 ہو جائے۔ مساوی حالت۔

اَلْكُفَاءُ۔ كَافًا کا مصدر۔ کہا جاتا ہے
 "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كُفَاءُ الْوَاجِبِ"

رواجی تعریف کے برابر خدا کی
 تعریف ہے "هَذَا كُفَاءُكَ" یہ



اس کی مانند ہے۔ ”وَلَا كِفَاءَ لَهُ“
اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔

رِكَفَاءُ الْبَيْتِ۔ خیمہ کے اوپر سے نیچے
تک کا پردہ جو آخر میں لگایا جاتا ہے
جہ۔ اَلْكَفِيَّةُ۔

الْكَفَاءُ وَالْكَفَاءُ وَالْكَفَاءُ۔ مثل و نظیر
جہ۔ اَلْكَفَاءُ دِ الْكَفَاءُ۔

الْكَفَوُءُ وَالْكَفَوُءُ وَالْكَفَوُءُ۔ و
الْكَفِيَّةُ۔ ماثل۔

الْكَفَاءُ وَالْكَفَاءُ۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ کھجور

کے درخت کی سالانہ پیداوار۔ فی
الْإِبِلِ۔ اونٹ کی ایک سال کی

پیداوار یا ایک سال اور اس سے زائد
کے ناغہ کی پیداوار۔ فِي الْأَرْضِ مِنْ

سال بھر کی کھیتی کہتے ہیں۔ ”مَنْحَتُهُ“
كَفَاءَةً عَنِّي۔ میں ایک سال کے

یہ دودھ، اون اور بچے بکریوں کے
سب دے دیے۔ بشرطیکہ سال بھر کے

بعد ان کی ماؤں کو واپس کر دے۔
الْكَفِيُّ۔ ماثل و مثالبہ بطن وادی کہا

جاتا ہے۔ ”هُوَ كَفِيُّ التَّوْنِ“ اس
کا رنگ پھیکا ہے۔

كَفٌّ الْوَادِي۔ وادی کا اندرونی حصہ۔
الْإِكَفَاءُ۔ اَلْكَفَاءُ کا مصدر۔ شعراء اور

اہل عروض کے نزدیک حرف ردی کو
بدل بدل کر لانا۔ مثلاً کہیں میم کہیں

دال کہیں نون استعمال کیا جائے۔
یہ ناجائز ہے۔ کہا جاتا ہے۔ ”رَأَيْتُكَ

مُكْتَفِي التَّوْنِ وَمُكْفَاء التَّوْنِ“
میں نے اس کا رنگ پھیکا اور بدلا

ہوا دیکھا۔
كَفَّتَهُ رَضٍ، كَفَّتَا۔ کسی کو اس کے رُخ

سے پھیرنا۔ اَللّٰهُ۔ خدا کا موت دینا۔
کہا جاتا ہے۔ ”اَللّٰهُمَّ اَكْفِئْهُ“

اَيْلُكُ۔ اے خدا تو اسے موت دیک

كَفَّتَ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا الٹ جانا۔
وَكَفَّتَ الشَّيْءُ إِلَى نَفْسِهِ۔ کسی

چیز کو اپنے ساتھ ملانا۔ الشَّيْءُ۔ کسی
چیز پر قبضہ کرنا۔ فَلَانٌ ذَلِيلُهُ۔

کسی کا اپنے دامن کو سمیٹ لینا اور
اسے اپنی طرف ملا لینا۔

كَفَّتَ رَضٍ، كَفَّتَا دِ كَفَّتَا وَ كَفَّتَا وَ
كَفَّتَا وَ دَدَّتَا۔ اَلْطَّائِرُ وَ

غَيْرُهُ۔ پرندے وغیرہ کا تیز اڑنا یا
دوڑنا اور سٹھنا۔

تَكَفَّتَ۔ فِي مَسِيرِهِ۔ تیز چلنا۔
تَكَفَّتَ الثَّوْبُ۔ کپڑے کا سٹھنا۔

كَافَتْ مُكَافَتَهُ وَ كَفَّتَا۔ الرَّجُلُ۔
دوڑنے بھاگنے میں مقابلہ کرنا۔

اِنْكَفَّتَ۔ پھیرنا۔ سٹھنا۔ اَلْفَرَسُ۔
گھوڑے کا دبلا ہونا۔

اِنْكَفَّتَ۔ الْمَالُ۔ سب مال بے لینا۔
اَلْكَفْتُ۔ مِم۔ موت۔ الٹ پلٹ ہونا۔

کہا جاتا ہے۔ ”خُبِرْتُ كَفْتُ شَيْءٍ سَالٍ
كِي رَوِي“ رَجُلٌ كَفْتُ۔ دُبلتا پتلا مرد

اَلْكَفْتُ۔ چھوٹی بندیا۔
اَلْكَفْتُ وَ اَلْكَفْتُ۔ مِنَ الْخَيْلِ

بہت اچھلنے کودنے والا گھوڑا، جو
سوار نہ ہونے دے۔

اَلْكَفَاتُ۔ مِم۔ وہ جگہ جہاں کوئی چیز جمع
کی جائے۔ اندوختہ۔ جمع کی ہوئی چیز۔

اَلْكَفِيْتُ۔ مِم۔ توشہ دان۔ جس میں
کھانا رکھا جائے۔ مِنَ الرِّجَالِ

ہلکا پھلکا تیز مرد۔ وہ شخص جو تم سے
آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔

عَدُوٌّ كَفِيْتُ۔ تیز چلنے والا دشمن۔
کہا جاتا ہے۔ ”مَاتَ كَفَاتَا وَ

مُكَافَتَةً“۔ وہ اچانک مر گیا۔
اَلْكَفَاتُ۔ فَعَال کے وزن پر اسم مبالغہ

شیر۔

اَلْمُكْفُتُ۔ جود و زربوں کو اپنے اور دونوں
کے درمیان کپڑا ہوا۔

كَفَحَ رَفٍ، كَفَحًا۔ الْعَدُوُّ۔ دشمن
کے رو برو ہونا۔ آٹنے سامنے ہونا۔

لَا طَعْلِي سَ مَارِنَا۔ لِحَامُ الدَّابَّةِ
سواری کے جانور کو ٹھہرانے کے لیے۔

اس کی لگام کھینچنا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز
کا سرپوش اتارنا۔

كَفَحَ رَضٍ، كَفَحًا۔ عَنَهُ۔ شرمندہ ہونا
بزدل ہونا۔

كَافَحَ۔ الْقَوْمُ أَعَدَّ اَهْلَهُمُ۔ دشمن کا
ڈھال وغیرہ کے بغیر جنگ میں مقابلہ کرنا

کہا جاتا ہے۔ ”هُوَ يُكَافِحُ الْأُمُورُ“
وہ کاموں کو خود سر انجام دیتا ہے۔

كَافَحَ۔ عَنَهُ۔ مَدْفَعَتُ کرنا۔
اَلْكَفَحَ۔ الدَّابَّةُ۔ چوپائے کو ٹھہرانے

کے لیے لگام کھینچنا۔ فَلَانًا عَنِ
نَفْسِهِ۔ کسی کو بھٹانا۔ دفع کرنا۔

تَكَافَحَ۔ الْقَوْمُ۔ آٹنے سامنے مقابلہ
کرنا۔

تَكَافَحَتِ الْأُمُورُ۔ موجوں کا ایک
دوسرے سے ٹکراتا۔ اَلْيَبَاسُ

مینڈھوں کا ایک دوسرے کو سینگ
مارنا۔

اَلْكَفَاحُ۔ مِم۔ کہا جاتا ہے۔ ”لَقِيتُهُ
كَفَاحًا“ میں نے اس سے آٹنے

سامنے ملاقات کی۔
اَلْكَفِيَّةُ۔ مانند ہم پتہ۔ کفو۔ شوہر ناگہانی

آنے والا ہمان۔
اَلْكَفَحُ۔ کالا۔ سیاہ۔

اَلْكَفَحَةُ۔ چھوٹی سی جماعت۔
كَفَحَهُ رَفٍ، كَفَحًا۔ پھڑپھڑانا۔

بِالْعَصَا۔ لاٹھی سے مارنا۔
اَلْكَفَحَةُ۔ جمع شدہ سفید مکھن۔ رَجُلٌ

مَكْفَحٌ۔ طاقتور مرد۔ عُمُودٌ مَكْفَحٌ

چیز کو اپنی طرف ملانا۔

كَفَّلَ (ن ض) و كَفَّلَ (س) و كَفَّلَ (ك) كَفَّلًا و كَفَّلًا - الرَّجُلُ و بِالرَّجُلِ و الْمَالُ و بِالْمَالِ - کسی آدمی کا یا مال کا ضامن ہونا۔ کہتے ہیں "كَفَّلَ عَنْهُ بِالْمَالِ يَخْرِيبُهُ" اس نے اس کی طرف سے اسی کے قرض خواہ کے مال کی ذمہ داری لے لی۔

كَفَّلَهُ - نان و نفقہ اور خیر گیری کی ذمہ داری لینا۔

كَفَّلَهُ و كَفَّلَهُ - ابًا كَفَّلَهُ ضامن بنانا۔ كَفَّلَ الْفَاضِي الْخَصْمَ قاضی نے مدعا علیہ سے ضامن لیا۔

كَفَّلَ - زَيْدٌ عَمْرًا - زید عمر کے مال کا ضامن ہوا۔

كَافَلَهُ مَكَافَلَةً - معاہدہ کرنا۔

تَكَفَّلَ - لَهُ يَكْفُلُ - ضامن ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَكَفَّلَ بِالْمَالِ" وہ مال کا ضامن ہوا۔ وَاكْتَفَلَ - الْبَعِيرُ - اونٹ کے کوہان پر گول زین رکھ کر سوار ہونا۔ اِكْتَفَلَ بِفُلَانٍ - کسی کو اپنے پیچھے سوار کرنا۔ بِالشَّيْءِ - کسی کو اپنے پیچھے کرنا۔ کہتے ہیں "اِكْتَفَلُوا بِالْحَبْلِ" وہ پہاڑ سے گزر گئے اور اسے پیچھے چھوڑ گئے۔

تَكَافَلُ - الْقَوْمُ - ایک کا دوسرے کا ضامن ہونا۔

اِكْفَلُ - دو گنا ثواب یا گناہ۔ پیچھے سوار ہونے والا۔ حصہ۔ نظیر اور مماثل۔ ضمانت۔ بیل کی گردن پر بیل کی نکڑی کے نیچے کا چھینٹا۔ اون جو پلے اون کے بعد نمودار ہو۔ وہ شخص جو گھوڑے پر نہ بیٹھ سکے۔ وہ شخص جو میدان جنگ میں آخر میں رہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اور اپنے بوجھ کو لوگوں پر

ڈال دے۔ وہ گول چیز جو چھینٹے

وغیرہ سے بنائی جائے۔ اور اونٹ کی کوہان پر رکھی جائے۔ وہ چیز جو سواری کی اس کے پیچھے سے حفاظت کرے۔ ج۔ اَكْفَالٌ۔

اَلْكَفْلُ - مِنَ الدَّابَّةِ جانور کا پچھلا حصہ۔ ج۔ اَكْفَالٌ۔

اَلْكَافِلُ - فَا - ضامن۔ یتیم کا سرپرست خبر گیری کرنے والا۔ لگا تار روزے رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے "بَاتَ فُلَانٌ كَا فُلَانٍ" فلاں نے ایسی حالت میں رات گزاری کہ نہ تو دن کو کھانا کھایا اور نہ رات کو۔ ج۔ كَفْلٌ۔

اَلْكَفَالَةُ - ضمانت۔ كَفَّلَهُ سے اسم ج۔ كَفَالَاتٌ۔

اَلْكَفِيلُ - ضامن۔ مماثل۔ ہم پلہ۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ كَفِيلٌ" و اِمْدَادٌ كَفِيلٌ و قَوْمٌ كَفِيلٌ ج۔ كَفْلًا و۔

اَلْكَفُولُ - كَفْلٌ کا اسم۔ کفل اس کو کہتے ہیں جو گھوڑے پر قائم نہ رہ سکے۔

كَفَنَ كَفْنًا - الْجَمْرُ بِالرَّمَادِ - جنگاری کو رکھ میں دبا دینا۔ اَلْصُّوْفُ - اون کا تنا۔ اَلْخَبْرَةُ فِي الْمَدِينَةِ - بھوبھل میں روٹی دبانا۔ و كَفَنَ الْمَيِّتَ مردہ کو کفن دینا۔

تَكَفَّنَ بَكْدًا - چھپنا۔ اَلْكَفْنُ - مصر۔ کہا جاتا ہے "طَعَامٌ كَفْنٌ" بے نمک کھانا۔

اَلْكَفْنُ - كَفْنٌ ج۔ اَكْفَانٌ۔

اَلْكَفَنَةُ - ایک قسم کا باریک اور پیچ دار درخت ہے۔ بقول بعض ایک گھاس ہے جو زمین پر بہت پھیلی

ہے۔

اَلْكَفَنَةُ - وہ سیاہ زمین جہاں ہر چیز آگ سے کہا جاتا ہے "قَوْمٌ مُكْفَنُونَ" ایسے لوگ جن کے پاس نمک نہ ہو۔

اَلْكَافِلَةُ - فوج کا سردار۔ اَلْكَفْهَرُ اَلْكَفْهَرَا - اَللَّيْلُ - رات کا سخت تاریک ہونا۔ اَلْسَحَابُ - بادل کا بہت سیاہ ہونا۔ اَلرَّجُلُ - مرد کا تیور بھی چڑھانا۔ اَلنَّجْحُ - ستارہ کا سخت تاریکی میں چمکنا۔

اَلْمُكْفَهَرُ - فَا - ہر تہ بہ تہ چیز سخت اور بلند پہاڑ۔ کم گوشت۔ سخت اور بے حیا چہرہ۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ مُكْفَهَرٌ اَللَّيْلُ" فلاں ٹیٹا بے رنگ کا اور سختی کی طرف مائل ہے۔

فُلَانٌ مُكْفَهَرٌ - فلاں اُداس ہے اس کا چہرہ پھیکا ہے۔ شگفتہ اور خنداں نہیں ہے۔


اَلْكَفُو و اَلْكَفَى - ہم پایہ اور ہم پلہ۔

كَفَى يَكْفِي كِفَايَةً - اَلشَّيْءُ - کافی ہونا۔ صفت کا ت۔ كَفَى الشَّيْءُ فُلَانًا - کسی چیز پر قناعت کرنا۔ اور دوسری چیز سے بے نیاز ہونا۔

كَفَى فُلَانًا مَوْدَةً - کسی کی کارگزاری کرنا اور دوسروں کی کارگزاری سے بے نیاز کرنا۔ کہا جاتا ہے۔

"كَفَيْتُهُ شَرَّ عَدُوِّهِ" میں نے اس کو اس کے دشمن کے شر سے بچا دیا۔ كَفَى کے فاعل پر حرف باء زائد بھی آتا ہے۔ جسے كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا - یعنی اللہ کی شہادت دوسری شہادت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس میں اللہ حالت

رفعی میں ہے اور شَهِيدًا تمیز ہے۔



كَافِي كِفَاءً اَوْ مَكَافَاةً - الرَّجُلُ -
بدلہ دینا۔ کافی ہونا۔

تَكْفِي - النَّبَاتُ - پودوں کا طویل ہونا۔
اِكْتَفَى - بَكَدًا - قناعت کرنا۔ بے
نیاز ہونا۔

اِسْتَكْفَى - الرَّجُلُ الشَّيْءَ - کسی سے
کافی چیز طلب کرنا۔ ... کہتے ہیں۔
"اِسْتَكْفَيْتُكَ اَلْمَوْفَقَا نِيْهِ"
میں نے اس سے کافی چیز کی درخواست
کی تو اس نے مجھے کافی دے دیا۔

اِكْفَايَةً - مِم - وہ چیز جو کافی ہو اور
غیر سے بے نیاز کر دے۔

اِكْفَى وَاِكْفَى وَاِكْفَى - جس سے
ضرورت پوری ہو جائے۔ کہتے ہیں۔
"رَجُلٌ كَفِيكَ مِنْ رَجُلٍ"
ایسا آدمی ہے جو تمہیں دوسرے
مرد سے بے نیاز کر دے۔ اس میں
واحد تنقیہ، مذکر و مؤنث، سب
برابر ہیں۔

اِكْفَى - اَنْدَرُونَ وادی - جر - اَكْفَاءُ
اِكْفِيَةً - گذارا۔ جو تمہاری زندگی گزارنے
کے لائق ہو۔ جر - كَفَى۔

اِكْفَى وَاِكْفَى - جو تمہارے لیے
کافی ہو اور تمہیں دوسروں سے
بے نیاز کر دے۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
رَجُلٌ كَافِيكَ مِنْ رَجُلٍ و
رَجُلَانِ كَافِيَاكَ مِنْ رَجُلَيْنِ و
رَجَالٌ كَافُواكَ مِنْ رَجَالٍ"

یہ مرد تمہیں دوسرے مرد سے بے
نیاز کر دے گا۔ کَفَى الرَّجُلُ -
مرد کا قائم مقام۔ اِكْفَى - بارش -
اَلْمَكَافَاةُ - مِم - احسان کا احسان یا

اس سے زیادہ چیز سے بدلہ دینا۔
کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مَكَافَاَتَكَ"
میں نے تم سے مکافات کی امید رکھی۔

كَلَّ (ض) كَلًّا وَكَلَّةً وَاَكْلًا وَاَكْلًا
كُلُّوا وَاَكْلًا وَاَكْلًا وَاَكْلًا
صفت کال ہے۔ والد اور اولاد
کے بغیر ہونا۔ السَّيْفُ وَاَكْلًا
تلوار وغیرہ کا کند ہونا۔ صفت کَلَّ
وَكُلَّ السَّيْفُ اَوَّالَ بَصَرِهِ -
زبان یا نگاہ کا اچھی طرح سے کام
نہ دینا۔

كَلَّ - السَّيْفُ - تلوار کا کند ہونا اور
نہ کاٹنا۔ عَنِ الْأَمْرِ - بزدل ہو کر
رُكْنَا - فِي الْأَمْرِ - کسی کام میں
کوشش کرنا۔ الرَّجُلُ - مرد کا
چلا جانا اور اپنے اہل و عیال کو ضائع
ہونے کے لیے چھوڑ دینا۔ السَّبْعُ -
دزدے کا حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
"كَلَّ تَكْلِيلَةَ السَّبْعِ" اس
نے دزدے جیسا حملہ کیا۔ عَلِيْهِ
يَا السَّبْعُ - تلوار سے حملہ کرنا۔
كَلَّةً - تاج پہنانا۔ بِالْحَجَارَةِ -

کسی کے اوپر پتھراؤ کرنا -
السَّحَابُ بِالْمَاءِ - بادل کا
آسمان پر چاروں طرف سے چھا
جانا۔

اَكَلَّ - اَلْبَكَاءُ بَصَرُهُ - رونے کا
نگاہ کو مدھم کر دینا۔ اَلْبَعِيرُ -
اونٹ کو ٹھکا دینا۔ الرَّجُلُ - مرد
کے اونٹ کا ٹھک جانا۔

تَكَلَّلَ - تاج پہنانا۔ الشَّيْءَ بِه - کسی
چیز کا احاطہ کرنا۔

تَكَلَّلُوهُ - لوگوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔
وَاَكْتَلَّ - السَّحَابُ عَنِ الْبَرْقِ
بادل میں بجلی کا آہستہ آہستہ چمکنا
اَكْتَلَّ الْعَمَامُ بِالْبَرْقِ - بادل
میں بجلی کا چمکنا۔

اَكْتَلَّ - السَّيْفُ - تلوار کا کند ہونا۔

اَلْبَرْقُ - بجلی کا آہستہ آہستہ چمکنا۔
الرَّجُلُ - سُكْرَانًا - السَّحَابُ
عَنِ الْبَرْقِ - بادل میں بجلی کا
آہستہ آہستہ چمکنا۔

اَكْتَلَّ - مِم - کمزور۔ جس کے والد اور
اولاد نہ ہو۔ یتیم، بھاری۔ بے خیر۔
پھری یا تلوار کا پچھلا حصہ۔ وکیل۔
بُت - مصیبت۔ محتاج۔ عیال۔

بوجھ۔ اس لفظ کا اطلاق واحد جمع
سب پر ہوتا ہے، بعض اس کے
مذکر و مؤنث کی جمع کُلُّوا کہتے ہیں۔

كَلَّ - سب ہر ایک۔ یہ ایسا اسم ہے جو
متعدد افراد کا احاطہ کرنے کے لیے یا
واحد کے اجزاء کو عام کرنے کے لیے

وضع کیا گیا ہے۔ یہ اضافت کے
بغیر مستعمل نہیں ہے۔ خواہ لفظ ہو
یا تقدیر۔ ما مفسرہ فی ظریفہ کے
داخل ہونے کی تکرار کا مفہوم ادا کرتا
ہے۔ جیسے "كَلَّمَا آتَاكَ زَيْدٌ"

اَكْرَمُهُ" جب کبھی زید تمہارے
پاس آئے تم اس کی عزت کرو۔ یہ
تکرار اور معرفہ کی صفت کے طور پر
بھی مستعمل ہے۔ اس موقع پر وہ

موصوف کی صفت کی انتہائی حد کو
ظاہر کرتا ہے جیسے هُوَ الْعَالِمُ
كُلُّ الْعَالِمِ - وہ عالم علم کی انتہائی
حد کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ معرفہ و تکرار

محدودہ کی تعریف کے لیے بھی آتا
ہے۔ جیسے سَيِّدُ الْمَلَائِكَةِ كَلَّمَهُ

تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اَقَمْنَا
حَوْلًا كَامِلًا كَلَّةً - ہم تمام سال
رہے۔ کُل کا لفظ مفرد اور مذکر ہے

اور مضاف الیہ کے لحاظ سے اس کا
مفہوم ہوگا۔ اگر تکرار کی طرف مضاف
ہوگا تو اس کے معنی کا لحاظ رکھنا ضروری



ہوگا اور اس کے بعد مفرود و مذکر
آئے گی جیسے کُلّ شئی فَعَلُوْهُ
یَحْكُمُوْهُ۔ انھوں نے ہر چیز کو حکمت
کے ساتھ کیا۔ یا مفرود مؤنث (جس حال)
جیسے کُلّ نفیس ذَا لِفَقَّةٍ الْمَوْتِ۔
ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔
یا ثنی تشبیہ جیسے و کُلّ رَفِیقٍ
کُلّ رَحِیلٍ وراثتاً۔ یا جمع مذکر
ہوگی جیسے و کُلّ اَنَاہِ سَوَفَ
تَدْخُلُ بَیْنَهُمْ۔ تمام لوگوں کے
درمیان تم داخل ہو گے۔ یا جمع مؤنث
جیسے و کُلّ مُصِیْبَاتِ الدَّعَا
وَجَدْتُهَا۔ اگر معرفہ کی طرف اضافت
ہو تو لفظ کی رعایت بھی جائز ہے اور
معنی کی بھی۔ جیسے کُلّ الْقَوْمِ حَضَرَ۔
یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کُلّ الْقَوْمِ
حَضَرُوا۔ اگر یہ لفظ اضافت کے
بغیر آئے تو اس صورت میں بھی لفظ و
معنی دونوں میں کسی ایک کے مطابق
اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جیسے
کُلّ حَضَرَ و کُلّ حَضَرُوا۔ کہا گیا
ہے کہ جب مضاف الیہ مقدر اور مفرود
نکرہ ہو تو مفرود لانا واجب ہے۔ اور
اگر جمع معرفہ کے ساتھ ہو تو جمع لانا
واجب ہے۔ افاقہ نہ ہونے کی
صورت میں اسی لفظ پر تین مضاف
الیہ کے بدلے میں ہے۔ چنانچہ اوپر
کی مثال میں مخدوف مضاف الیہ
پہلی مثال میں کُلّ اَحَدٍ حَضَرَ ہے
اور دوسری مثال میں کُلُّهُمْ حَضَرُوا
ہے۔

اگر لفظ کُلّ نفی کے بعد واقع ہو تو
بعض افراد کی نفی ہوگی جیسے۔ ہَا
جَاءَ کُلّ الْقَوْمِ۔ پوری قوم نہیں آئی
کچھ آئی کچھ نہیں آئی۔ اگر لفظ کُلّ

پہلے اور نفی بعد میں ہو تو سارے افراد
کی نفی ہوگی جیسے۔ کُلُّهُمْ لَمْ
يَقُوْمُوْا۔ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔
اس لفظ الف لام نہیں داخل ہوتا
مگر اس وقت جب وہ مضاف الیہ
کے عوض میں ہو۔ یا کال بھی کا مفہوم
مراد لیا جائے۔ جیسے اَلْکَلَّ لِاَحَاظِلِ
الْاَفْرَادِ۔

کَلَّ۔ ہرگز نہیں۔ یہ حرف روکنے اور تنبیہ
کے لیے مستعمل ہے۔
اَلْکَلَّ۔ کُلّ کا اسم مرہ۔ کند چھری اور
دھار۔

اَلْکَلَّ۔ دیر تاخیر کُلّ کا مؤنث۔ جیسے
کَلَّۃُ امْرَاٍ۔ کُلّ امْرِئٍ۔
اَلْکَلَّۃُ۔ باریک پردہ۔ چھردانی۔ ہودج
کے سرے پر سرخ اون۔ ج۔ کَلَّۃُ
و کَلَّاتٌ۔
اَلْکَلَّۃُ۔ حالت۔ کہا جاتا ہے۔ "بَاتِ
بِکَلَّی سُوْعٍ" اس نے بری حالت
میں رات گزاری۔

اَلْکَلَّۃُ۔ شکس۔ جس کے والد اور اولاد
نہ ہو۔ وہ شخص جس کا نسبی رشتہ دار
نہ ہو۔ کہتے ہیں۔ "هُوَ ابْنُ عَجَّ
اَلْکَلَّۃِ و ابْنُ عَجَّ کَلَّۃٌ"
وہ شخص خاندان کا فرد ہے مگر قریبی نسبی
رشتہ دار نہیں ہے۔

اَلْکَلَّۃُ۔ کُلّ کی طرف نسوب۔ اَلْعِلْمُ
اَلْکَلَّۃُ۔ علم النہی۔
کَلَّیۃً۔ شئی۔ کسی چیز کا مجموعی اور
کُلّ حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ اَخَذَ
بِکَلَّیۃِہِ۔ اس نے وہ چیز پوری
پوری لی۔

اَلْکَلَّیَاتُ۔ فی عرف المنطقیین۔ وہ مفہوم
جو بہت افراد پر صادق ہو۔ اس کی
پانچ قسمیں ہیں۔ جنس۔ وہ کلی جس

کے افراد کی حقیقتیں مختلف ہوں جیسے
حیوان۔ نوع۔ وہ کلی جس کے افراد کی
حقیقتیں متحد ہوں۔ جیسے انسان۔
فصل۔ وہ کلی جو دوسرے اقسام سے
اپنے افراد کو ممتاز کر دے جیسے ناطق۔
خاصہ۔ وہ کلی عرض جو ایک حقیقت
کے ساتھ مخصوص ہو۔ جیسے ضاحک۔
عرض عام۔ وہ کلی جو ایک سے زائد
اقسام کے ساتھ مختص ہو۔ جیسے
ماشی۔

اَلْکَلَّیۃُ۔ تاج۔ جو ابر سے مرصع ہو۔
ج۔ اَلْکَلَّۃُ۔ وَاکَالِبُ نَاخَنِ
ارد گرد کا گوشت۔

اَلْکَلَّیۃُ الْمَلِکِ۔ ایک قسم کی نباتات۔
ناخنہ۔ اَلْکَلَّیۃُ الْجَبَلِ۔ ایک قسم
کی نباتات۔

اَلْکَلَّیۃُ۔ بھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے۔ "بَصَرَ
کَلَّیۃً۔ کمزور نگاہ۔ سَیْفٌ کَلَّیۃٌ۔
کند تلوار۔ ج۔ کَلَّۃٌ۔

کَلَّۃٌ رَفَہٌ، کَلَّۃٌ و کَلَّۃٌ و کَلَّۃٌ۔
اللہ فُلَانٌ حفاظت کرنا۔ کَلَّۃٌ
بِالسُّوْطِ۔ کوڑے مارنا۔ کَلَّۃٌ
بَصَرَکَ فِی الشَّیْءِ۔ بار بار دیکھنا۔
النَّجْمَ مَتٰی یَطْلُعُ۔ ستارے کے
طلوع ہونے کا انتظار کرنا۔ کَلَّۃٌ و
کَلَّۃٌ۔ اَلْمَدِیۃُ۔ قرض کی
ادائیگی میں دیر ہونا۔ صفت کا لُغَیّہ۔
و کَالِ۔ عُمُرُکَ عمر کا ختم ہونا۔
کَلَّۃٌ و کَلَّۃٌ دس۔ کَلَّۃٌ السَّکَانَ۔ جگہ
کا سبزہ زار ہونا۔

اَلْکَلَّۃُ۔ اَلْاَقَاۃُ۔ اوطنی کا سبزہ کھانا۔
کَلَّۃٌ تَکَلِّیۃً و تَکَلِّیۃً۔ السَّیْفِیۃُ
کشتی کو کنارے کے قریب کرنا۔
الرَّجُلُ۔ باز رکھنا۔ روکنا۔ فِی
الْاَمْرِ۔ کسی کام پر غور کرنا۔ اِلٰی



فُلَانٌ فِي الْأَمْرِ - آگے بڑھنا۔
تَكْلِيْفًا - بیعانہ لینا۔ تَكْلِيْفًا -
ہوا سے پناہ کی جگہ آنا۔ فِي الطَّعَامِ
وَعَيْرِهِ - بیع سلم کرنا۔
كَأَنَّكَ مُكَارَّةٌ وَكِلَاءٌ - انتظار
کرنا۔

تَكْلَوًا وَاسْتَكْلَوًا - اِكْلَاؤًا - بیعانہ لینا۔
اسْتَكْلَوًا - المکان - کسی جگہ سبزہ
زیادہ ہونا۔
اِكْتَلَاؤًا - اِكْلَاؤًا - بیعانہ لینا۔
اِكْتَلَاؤًا - عَيْئَةً - بیخوابی میں مبتلا ہونا
اور نہ سونا۔

اِكْتَلَاؤًا مِنْ فُلَانٍ - کسی سے بچنا۔
اِكْلَاؤًا - گھاس - سبزہ - جہ - اِكْلَاؤًا - اس
میں سوکھی اور سبز گھاس دونوں شامل
ہیں۔

اِكْلَاؤًا - بندرگاہ - دریا کا کنارہ۔
اِكْلَاؤًا - اِكْلَاؤًا - بیعانہ - ادھار - جہ
گواہی و گواہی - مَكَانٌ كَلِيٌّ وَ
مَكْلِيٌّ - بہت سبزہ والا مقام مونس
کَلِيٌّ دَمَكْلِيٌّ - رَجُلٌ كَلُوٌّ
العَيْنِ - بیدار چشم مرد - جس پر نیند
غالب نہ آ سکے - عَيْنٌ كَلُوٌّ -
بیدار آنکھ۔

اِكْلَاؤًا - بیعانہ - ادھار۔
اِكْلَاؤًا - اسم تفنیل - کہا جاتا ہے۔
”بَلَّغَ اللَّهُ بِكَ اِكْلَاؤَ الْعُمَرِ“
خدا تعالیٰ انتہائی عمر کرے۔ اَرْضُ
مَكْلَاؤًا - بہت سبزہ والی زمین۔
اِكْلَاؤًا - بندرگاہ - دریا کا کنارہ۔ وہ جگہ
جہاں ہوا سے پناہ لے سکیں۔

كَلَبٌ (دَن) كَلَبًا - الفوس - گھوڑے کو
مہینہ مارنا۔ الْمَزَادَةُ - توشہ دان
میں تسمہ لگانا۔
كَلَبٌ رَضٌ كَلَبًا - الرَّجُلُ مَرَدًا كَتُولَ

کی طرح آواز نکالنا تاکہ اسے سن کر
کتے بھونکنے لگ جائیں اور ان کا
پتہ چل سکے۔ جبکہ کوئی آدمی ویران
جگہ میں ہو۔ اِكْلَبُ کتے کا لاگو
اور دیوانہ ہو جانا کہ لوگوں کو کھانے
کا عادی بن جائے۔

كَلَبٌ رَسٌ كَلَبًا - پیا سا ہونا۔ اِكْلَبُ
کتے کا دیوانہ ہونا۔ الرَّجُلُ - مرد
کا پاگل کتے کے کاٹنے سے دیوانہ
ہو جانا۔ عَلَى الْأَمْرِ - کسی کام پر
حریص ہونا۔ فِی كَذَا - کسی چیز کی امید
رکھنا۔ عَلَى الرَّجُلِ - اصرار کرنا۔
الرَّجُلُ سیر ہوئے بغیر بہت کھاتا۔
دیوانے کتے کا کاٹنا۔ دیوانے کتے
کے کاٹنے سے چیتنا۔ غصہ ہونا۔

اِكْلَبُ - کتے کا لاگو ہونا۔ اَلْقَدُّ
عَلَى الْأَمْرِ - خشک ہو کر کاٹنا۔
اَلْمَشَجَرُ - درخت کی سیرابی نہ ہونے
کی وجہ سے پتوں کا خشک ہونا اور
گذرنے والے کے پتوں سے الجھنا۔
اَلشَّيْءُ وَالزَّمَانُ - سردی اور زمانے
کا سخت ہونا۔

كَلَبٌ كَلَبًا - الرَّجُلُ - کتے کے کاٹنے
کی وجہ سے دیوانہ ہونا
كَلَبٌ - اِكْلَبُ - کتے کو سدھانا۔
كَلَبٌ كَلَبًا وَ مَكَالِبَةً - الرَّجُلُ -
کسی سے کھلم کھلا دشمنی کرنا اور اسے
تنگ کرنا۔

كَالْبَتِ الْإِذِلِ - اونٹوں کا کانٹے دار
درخت جڑنا۔
اَكْلَبٌ - الْقَوْمُ - لوگوں کے اونٹوں کا
پیا سا ہونا۔

تَكْلَبٌ - الْقَوْمُ - کھلم کھلا آپس میں
دشمنی کرنا۔ عَلَى كَذَا - اکیڈوسرے
پر حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تَكْلَبُ

النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا - لوگ دنیا کے
بہت حریص ہو گئے۔
اِسْتَكْلَبُ - الرَّجُلُ - کتوں کی طرح
بھونکنا۔ اِكْلَبُ - کتے کا لاگو ہونا۔
انسان کے کھانے کا عادی ہونا۔

اِكْلَبُ - کتا۔ جہ - كَلَبٌ - وجہ۔
اَكْلَبٌ وَ كَلَبَاتٌ - چکی کے دھڑے
کالو یا۔ کجاوہ کے کنارے کی میخ جس
پر مسافر پناہ توشہ وغیرہ لٹکائے۔ دیوار
کو سہارا دینے کی لکڑی۔ ٹیلے کا کنارہ۔
ستوار کے قبضے کی میخ۔ اِكْلَبُ مِنْ
الْفَرَسِ - گھوڑے کی پیٹھ کی دھاری۔
کہا جاتا ہے ”اَسْتَوَى عَلَى كَلَبٍ
قَرِيبًا“ وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر
جم کر بیٹھ گیا۔ نیز کہا جاتا ہے ”كَفَّ
عَنْهُ كَلَابَةً“ اس نے اس کو گالی
دینی اور اذیت پہنچانی چھوڑ دی۔ اسی
طرح یہ بھی محاورہ ہے ”فُلَانٌ
يُوَادِي الْكَلَبَ“ یعنی اس کا کوئی
گھر بار نہیں ہے۔ جہاں وہ ٹھکانہ
لے سکے۔

اِكْلَبُ - وادی میں پانی کا پہلا اضافہ۔ ہر وہ
چیز جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔
جیسے چڑے کے دو کناروں کو ایک
تسمے سے باندھ دیا جائے۔ كَلَبُ
الْمَاءِ اِكْلَبُ الْبَحْرِ - ایک قسم کی
مچھلی جو کتے سے مشابہ ہوتی ہے۔ دم
لمبی اور کان اور ٹانگیں چھوٹی ہوتی
ہیں۔ رنگ سرخی سیاہی مائل ہوتا ہے
اِكْلَبُ وَ كَلَبٌ الْجَبَّارِ وَ اِكْلَبُ الْاَكْبَرِ
وَ كَلَبُ الْاَصْغَرِ وَ كَلَبُ الرَّاعِي الْ
ستاروں کے نام۔ كَفَّ اِكْلَبُ -
ایک قسم کی پھیلی ہوئی گھاس۔ لِسَانُ
اِكْلَبِ - ایک قسم کا پودا۔
اِكْلَبُ - کتے کے کاٹنے سے دیوانگی۔



الْكَلْبُ - کلب کا مصدر۔ کتے کی دیوانگی
 کامرض۔ سخت پیاس۔ موسم سرما کا
 آغاز۔ کہا جاتا ہے "دَقَعَتْ
 عَنْكَ كَلْبٌ فَلَانٌ" میں نے تم سے
 فلاں کے شر کو دور کر دیا۔
 الْكَلْبِيَّةُ - کتیا۔ کاٹا۔ اُمُّ كَلْبِيَّةٍ -
 بخارہ۔
 الْكَلْبَتَانِ - لوبار کا زبور۔ دانت اکھاڑنے
 کا زبور۔ اسے کلابہ بھی کہتے ہیں۔
 الْكَلْبَةُ - سختی۔ تنگی۔ قحط۔ سخت سردی۔
 بلی کتے کی مٹھتی کے دونوں طرف
 کے بال۔ شراب فروش کی دکان۔
 الْكُلَّابُ وَالْكُلُوبُ - ہمیشہ لگانے
 کے لیے مڑے ہوئے سر کی سلاخ۔
 آنکھیں۔ ج۔ کَلَوْنِيْبُ - کَلَوْنِيْبُ
 الْبَارِزِي - باز کے بچے۔ کَلَوْنِيْبُ
 الشَّجَرِ - درخت کے کانٹے۔
 الْكُلَّابُ وَالْكُلَّابُ - کتے والا۔ الْكُلَّابُ
 فیکاری کتوں کو سدھانے والا۔ کجاوہ
 کے کن رے۔ کچھ لٹکانے کے لیے
 میخ یا لوبہ گوشت وغیرہ لٹکانے کے
 لیے لوبہ کا کٹا۔ ج۔ کَلَوْنِيْبُ -
 الْكَلِيْبُ وَالْكَلِيْبُ - کتوں کا گروہ۔
 الْكَلْبُ - ج۔ کَلِيْبُوْنُ وَالْكَلِيْبُ - ج۔
 کَلْبِي - باولے کتے کے کاٹنے سے
 دیوانہ۔ عام کَلْبُ - سختی اور قحط
 کا سال۔ دَهْرُ كَلْبٍ - سخت اور
 غم انگیز زمانہ۔ سَايِلُ كَلْبٍ بہت
 اصرار سے مانگنے والا۔ کہا جاتا ہے۔
 "هُوَ كَلْبٌ عَلَى كَذَا" وہ اس چیز
 کا بہت حریف ہے۔
 الْكَلْبَةُ - کَلْبُ کا مؤنث۔ خاردار درخت۔
 اَرْضُ كَلْبِيَّةٍ - اَرْضُ كَلْبِيَّةٍ
 الشَّجَرِ - خشک زمین۔
 الْمَكْلَبُ - بفع۔ بیڑی پڑا ہوا قیدی۔

كَلَابٌ مُكَلَّبَةٌ - سرھے ہوئے
 کتے۔
 الْمَكْلَبُ - کتوں کو سدھانے والا شکار
 پکڑنے والے جانور۔
 الْمَكَالِبُ - دلیر۔ اَرْضُ مُكَلَّبَةٍ - بہت
 کتوں والی زمین۔
 كَلَّتْ (رض) كَلَّتَا - الشَّيْءُ - کسی چیز کو
 جمع کرنا۔
 كَلَّتْ - بہہ پھینکا۔ كَلَّتَهُ فِي الْإِنَاءِ -
 برتن میں اٹدینا۔ الْفَوْسُ كُفُوْتُ
 کو چلانا۔
 اِنْكَلَّتْ - الْمَاءُ - پانی گرنا۔ الرَّجُلُ -
 مرد کا پریشان ہونا۔
 اِنْكَلَّتْ - الْمَاءُ - پانی پینا۔
 اِنْكَلَّتْ - کھانے کا حصہ۔
 اِنْكَلَّتْ وَالْكَلِيْبُ - لمبا پتھر جس سے
 بچو کے بھٹ کو بند کیا جاتے۔
 كَلَّتَبْ كَلْبِيَّةٌ - فی امیرہ۔ کام میں
 سستی کرنا۔
 اِنْكَلَّتَبْ وَالْكَلَّتَبْ - کام میں سستی
 کرنے والا۔
 كَلَشَحْ كَلْمَةٌ - لَحْمِ الْوَجْهِ - ترشروی
 کے بغیر چہرے کا گوشت سٹنا۔
 الْكَلُشُوْمُ - چہرہ اور رخسار پر زیادہ گوشت
 ہونا۔ جھنڈے کے سرے پر شیم کا ٹکڑا۔
 الْكَلْبُ - بہادر۔ سختی۔
 الْكَلْبُ - طاقتور لوگ۔
 كَلَمَ (رف) كَلُوْحًا وَكَلَاْحًا - وَجْهَةٌ -
 تیوری چڑھا ہوا ہونا۔ صفت کَالِبٌ -
 کہا جاتا ہے "كَلَمَ فِي وَجْهِ
 الصَّبِيِّ اَوِ الْمَجْنُوْنِ" بچے یا پاگل
 کو گھبرا دینا۔
 كَلَمَ - وَجْهَةٌ - تیری چڑھا ہوا ہونا۔
 وَجْهَةٌ - تیوری چڑھانا۔
 كَالَحْ - فَلَانًا - ایک دوسرے کا قوت میں

مقابلہ کرنا۔ الْقَمَرُ - چاند کا بادل میں
 پھینا۔
 كَلَمَ - الْوَجْهَةُ - تیوری چڑھا ہوا ہونا۔
 الْبَرِّيُّ - بجلی کا لگاتار چکنا۔ الرَّجُلُ -
 مسکرانا۔
 اِنْكَلُوْحَ - وَجْهَةٌ - تیوری چڑھانے میں دانت
 نکلانا۔ کہا جاتا ہے "دَهْرُ كَلُوْحَ -
 تنگی کا سخت زمانہ۔
 كَلَاَجَ - بنی برکسرہ۔ قحط کا سال۔
 الْكَلْحَةُ - منہ اور اس کے آس پاس کا حصہ۔
 الْكَالِبُ - فاء وہ شخص جس کے ہونٹ کھلے
 ہوئے ہوں۔ کہا جاتا ہے "دَهْرُ اَوْ
 شَتَاوُ كَالِبٌ" سخت زمانہ یا سخت
 سردی۔
 الْكُلُوْلُ - بُرَا -
 كَلْبٌ كَلْبَةٌ - تلوار سے مارنا۔
 كَلَدَ (رض) كَلَدًا وَكَلَدًا - الشَّيْءُ - تہ
 بہتہ جمع کرنا۔
 تَكَلَدَ - الرَّجُلُ - گوشت کا موٹا، اور
 سخت ہونا۔
 الْكَلَدُ - سخت زمینیں۔ واحد كَلْدَةٌ -
 الْكَلِيْدُ - کنجی۔ کلید۔ اقلید بھی کہتے ہیں۔
 اور یہ دخیل ہے۔
 كَلَزَ (رض) كَلَزًا وَكَلَزًا - الشَّيْءُ - جمع کرنا۔
 اَكَلَزْنَا اَكَلَزْنَا اَمَّا - الْبَارِزِي - باز کا شکار
 کرنے کے لیے سمٹ جانا۔ الرَّجُلُ -
 مرد کا سکرنا۔
 الْكَلَزُ - مضبوط پٹھے والا۔ گٹھا ہوا مرد۔
 كَلَسَ - الْبَيْتُ - چوٹے سے استر کاری کرنا۔
 - الشَّيْءُ - کسی چیز کو گچ یا چوٹے کی مانند
 ہونا۔ عَنِ قَدْرِهِ - حریف کے سامنے
 سے بزدل بن کر بھاگنا۔ مِنَ الْمَاءِ - پانی
 سے سیراب ہونا۔
 تَكَلَسَ - چونا یا گچ ہونا یا چوٹے یا گچ کی مانند
 ہونا۔ مِنَ الْمَاءِ - پانی سے سیراب ہونا۔



الکُنُس۔ چوتنا یا چونا راگھ ملا ہوا۔
 الکُنْسَةُ۔ بھورا رنگ، سیاہی مائل۔
 الْاُكُنْسُ۔ چمنے کے رنگ والا۔
 الْكُلَّاسُ۔ چونا والا، چونا بیچنے والا۔ سَيْفُ
 كَلَّاسٍ۔ تیز تلوار۔
 الْمُتَكَلِّسُ۔ تیز دوڑنے والا۔
 الْاُتْكَلِيسُ۔ ایک ٹھیل جو سانپ کی مانند
 ہوتی ہے اس کو حَنْكَلِيس بھی کہتے
 ہیں (دخیل)۔
 كَلَسَمَ۔ ایہ۔ قصد کرنا۔ ارادہ کرنا۔
 الرَّجُلُ تِيزِي کے ساتھ جانا بستی کی
 وجہ سے حقوق ادا کرنے میں تاخیر کرنا۔
 كَلَصَمَ الرَّجُلُ۔ بھاگنا۔
 كَلِيعَتْ دَسْ كَلْعًا قَدْمُهُ۔ پاؤں کا
 میلا ہونا اور بھٹنا۔
 كَلِيعَ دَسْ وَكَلَعَ كَلْعًا۔ اَوَسَّخَ عَلٰی
 رَأْسِهِ اَدْنٰی رَأْسِهِ۔ سر پر میل کا
 خشک ہونا۔ كَلَعَ رَأْسُهُ۔ سر کا میلا
 ہونا۔ كَلِيعَتْ قَوَائِمُ الدِّ اَبَةِ
 چوپائے کی ٹانگوں میں سخت خارش ہونا
 ۔ كَلْعًا وَكَلْعًا۔ البَعِيرُ۔ اونٹ
 کے کھروں کا پھٹنا۔
 اَكْلَعَهُ۔ اَوَسَّخَ۔ میل پھیل کا چڑھنا
 اور تہ بہ تہ ہونا۔
 تَكَلَّمَ۔ القَوْمُ۔ لوگوں کا جمع ہونا۔ اور
 آپس میں قسم کھانا۔
 الْيَكْلُ۔ بدنامی نہ شخص۔ ج۔ كَلْعَةً۔
 الْكَلْعُ۔ پاؤں کی میل۔ پھٹن۔
 الْكَلْعُ۔ گندہ انسان جس پر بہت میل پھیل
 جمی ہوئی ہو۔ مَوْتُ كَلْعَةٍ۔ کہا جاتا
 ہے۔ "هُوَ اَسْوَدُ كَلْعٍ"۔ وہ کالا ہے
 اور اس کی سیاہی میل پھیل کی مانند ہے
 الْكَلْعَةُ۔ بکریوں کے ریوڑ کا ایک حصہ۔
 بہت سی بکریاں۔
 الْكُلْعَةُ۔ اونٹوں کی ایک بیماری جو ان کو

ان کے بدن کے پچھلے حصے میں لاحق
 ہوتی ہے۔
 الْكَوْلُ۔ میل پھیل۔
 الْكُلَامُ۔ مہم۔ بہت اور سختیوں کو
 برداشت کرنا۔ جنگ کے مواقع۔
 كَلِفَ دَسْ كَلْفًا۔ الْوَجْهَ۔ چہرہ پر
 جھائیاں ہونا۔ چہرہ پر سرخی اور ٹیلا پن
 کا چھاجانا۔ صفت مذکر اَكْلَفُ۔ صفت
 مؤنث كَلْفَاءُ۔ بہ کسی سے بہت
 زیادہ محبت کرنا۔ صفت كَلِفُ۔
 الْأُمُّ۔ مشقت پر آمادہ کرنا۔
 كَلَفَهُ۔ مشکل کام کا حکم دینا۔
 اَكْلَفَهُ۔ یکذا۔ کسی چیز کا شوق بنادینا۔
 تَكَلَّفَ۔ الْأُمُّ۔ خلاف عادت و شواہد
 کو برداشت کرنا۔
 اَكْلَفَتْ اَكْلَفًا۔ جھائیں کے رنگ
 کا ہونا۔
 اَكْلَفَ سِبَابِي زُرْدِي مائل جھائیاں۔
 الْيَكْفُ۔ عاشق مرد۔
 الْكُلْفَةُ۔ جھائیں کا رنگ سرخ ٹیلا مائل
 رنگ یا سیاہی سرخی مائل رنگ۔
 مشقت نصیبت یا حتی پر رنج۔ ج۔
 كَلَفٌ۔
 التَّكْلِيفَةُ۔ تکلیف و مشقت۔ ج۔
 تکالیف شاعر کہتا ہے "سَيَمُتُ
 تَكْلِيفُ الْحَيَاةِ" میں زندگی کی
 مشقتوں سے گھبرا گیا ہوں۔
 الْكُلُوفُ۔ مشکل کام۔
 الْكُلُوفَةُ۔ سخت محبت و اشتیاق۔
 اَكْلَفَاءُ۔ اكلف کا مؤنث۔ تیز سرخ
 شراب جو سیاہی مائل ہو جائے۔ سرخی
 سیاہی مائل شراب کا مشکا۔
 الْمُكْلَفُ وَالْمُتَكْلِفُ۔ بیکار باتوں میں
 پڑنے والا۔ تکلف کرنے والا۔
 الْكَلْكُ۔ چھوٹی کشتیاں جو عراق کے

دریاؤں میں چلتی تھیں۔ ج۔ كَلِكَاثُ۔
 الْكَلْكُلُ۔ ج۔ كَلَاكِلُ۔ الْكَلْكَالُ۔
 سینہ بنسلی کی بڑیوں کے درمیان
 کا حصہ۔ مِنْ الْفُرْسِ۔ گھوڑے کے
 سینہ کا وہ حصہ جو بیٹھے کی حالت میں
 زمین پر لگے۔ الْكَلَاكِلُ۔ جماعتیں۔
 الْكَلْكُلُ وَالْكَلَاكِلُ۔ مضبوط گٹھے بدن
 کا پستہ قدمرد۔ مَوْتُ كَلْمَةٍ وَ
 كَلَاكِلَةٍ۔
 كَلْمَةُ رَضْنٍ كَلْمًا۔ زخمی کرنا۔ کہا
 جاتا ہے "هَذَا امَّا يَكْلِمُ الْعَوْصِقَ
 وَالِدَيْنِ" یہ وہ چیز ہے جو آب و اور
 دین کو زخمی کرتی ہے۔
 كَلْمَةُ تَكْلِيمًا۔ زخمی کرنا۔ تَكْلِيمًا وَ
 كَلَامًا۔ بات چیت کرنا۔ گفتگو کرنا۔
 كَالْمَةِ مَمَّا لَمَّةً۔ گفتگو کرنا۔ کہا جاتا
 ہے "كَانَا يَتَصَارِمَيْنِ قَا صَبَحَا
 يَتَكَلَّمَانِ" وہ دونوں ایک دوسرے
 کو چھوڑے ہوئے تھے پھر ایک دوسرے
 سے گفتگو کرنے لگ گئے۔ اس موقع
 پر يَتَكَلَّمَانِ نہیں کہا جائے گا۔
 تَكَلَّمَا تَكَلَّمَا وَتَكَلَّمَا۔ الرَّجُلُ
 كَلِمَةً وَبِكَلِمَةٍ۔ بات کرنا۔ بولنا۔
 الْكَلْمُ۔ مہم۔ زخم۔ ج۔ كَلُومٌ وَ
 كَلُومٌ۔
 الْكَلِمَةُ۔ ج۔ كَلِمٌ وَكَلِمَاتٌ۔ وَ
 الْكَلِمَةُ۔ ج۔ كَلِمٌ۔ الْكَلِمَةُ
 ج۔ كَلِمَاتٌ۔ لفظ مفرد یا مرکب جو
 انسان بولے کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کلمہ التقویٰ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔
 الْعَشْرُ الْكَلِمَاتِ۔ خداوند تعالیٰ کے
 دس احکام جو بنی اسرائیل پر نازل
 ہوئے تھے۔
 الْكَلِمَةُ وَكَلِمَةُ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ



علیہ السلام کا لقب۔ کلمۃ کا اطلاق خطبہ اور قصیدہ پر بھی ہوتا ہے۔

الکَلَامُ۔ قول۔ گفتگو۔

الکَلَامُ۔ سخت زمین۔

الکَلَمَانِیُّ وَالکَلَمَانِیُّ وَالکَلَمَانِیُّ

وَالکَلَمَانِیُّ۔ فصیح اور عمدہ گفتگو

کرنے والا۔ بہت بولنے والا۔ ہر ایک

کے آخر میں تا لگانے سے مؤنث کا

صیغہ ہوجائے گا۔ رَجُلٌ نِکَلَامٌ و

نِکَلَامٌ و نِکَلَامَةٌ و نِکَلَامَةٌ۔

ابھی اور فصیح گفتگو کرنے والا۔

الکَلِمِیُّ۔ مجروح۔ ج۔ کلہی۔ بہکلام۔

الکَلِمِیُّ و کَلِمِیُّ اللہ۔ حضرت موسیٰ

علیہ السلام کا لقب۔ رَجُلٌ کَلِمِیُّ

بہت بولنے والا۔

الْمُتَکَلِّمُ۔ علم کلام کا ماہر۔

الْمُتَکَلِّمُ۔ گفتگو کی جگہ۔ کہتے ہیں "مَا

أَجَدُ مُتَکَلِّمًا" میں گفتگو کی کوئی

جگہ نہیں پاتا ہوں۔

کَلِیٰ یُکَلِّیٰ کَلِیًّا۔ الرَّجُلُ۔ کسی مرد کے

گردے پر ضرب لگانا۔ صفت مفعولی

مَکَلَّیٌ۔

کَلِی دس، کَلِیًّا و اِکْتَلٰی۔ گردے پر

چوٹ لگنا۔

اِکْتَلَاہُ۔ گردے پر ضرب لگانا۔

کَلِی۔ درد گردہ میں مبتلا ہونا۔

کَلِی تَکَلِّیۃ۔ پوشیدہ جگہ آنا۔

اِکْلُوٰی۔ اِکْلِیۡلًا۔ شکست کھانا۔

اِکْلَبَہُ و اِکْلَوۡۃُ۔ گردہ۔ شئی۔

کَلِیۡتَانِ و کَلَوۡتَانِ۔ ج۔ کَلِی و

کَلِیَاتٍ و کَلَوَاتٍ۔

کَلِی الوادی۔ وادی کے اطراف و جوانب

کہا جاتا ہے "عَلَّمَ حَمْرًا و

اِکْلٰی۔ دہلی پتلی بکریں" و کَلِیۡۃُ

بَشَحِ کَلَاہُ۔ میں نے اس سے

آغاز جوانی اور ایام نشاط میں ملاقات

کی۔

الکَلِیۃُ۔ مِنَ الْقَوَیْسِ۔ کمان کے

قبضے سے تین بالشت۔ صِن

السَّحَابِ۔ بادل کے نیچے کا حصہ۔

الکَلِی۔ مِنَ الطَّیْرِ۔ پرندے

کے بازو کے چار پر۔

الکَلِیۃُ۔ درد گردہ کا مریض۔

کَلَا و کَلَتَا۔ یہ دونوں اسم لفظاً مفرد اور

محتوں کے لحاظ سے ثنی (ثنیہ) ہیں

کَلَا سے مذکر کی اور کَلَتَا سے مؤنث

کی تاکید ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ ایسے

کلمہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں جو معرف

اور ثنیہ پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ جب

اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوتے ہیں

تو الف اپنی حالت پر باقی رہتا ہے

اور ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔

جیسے "رَأِیْتُ کَلَا الرَّجُلَیْنِ و

کَلَتَا الْمَرْأَتَیْنِ" مگر جب یہ ضمیر

کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ثنی

جیسا اعراب ہوتا ہے جیسے "جَاءَ

الرَّجُلَانِ کَلَاھُمَا و رَأِیْتُ

الرَّجُلَیْنِ کَلِیۡھُمَا و الْمَرْأَتَیْنِ

کَلِیۡھُمَا" جب ان کی طرف ضمیر

راجع ہوتو ان کا لفظ مفرد ہونے کی

وجہ سے مفرد کا صیغہ لایا جاتا ہے۔

جیسے کَلَتَا الْجَنَّتَیْنِ اَتَتَا

اُکْلَہَا۔ دونوں باغوں نے اپنا پھل

دیا۔ زَیْدٌ و عَمْرُوٌ کَلَاھُمَا

قَاتِلًا۔ یہی طریقہ زیادہ فصیح ہے

مگر معنوں کے لحاظ سے شئی کا صیغہ

بھی لایا جاسکتا ہے۔ جیسے کَلَاھُمَا

قَامَا زَیْدٌ و عَمْرُوٌ قَاتِلَیْنِ

گداں کا استعمال ہن کم ہے تاہم

کَلَاھُمَا مُحِبَّیْنِ لِصَاحِبِہ۔ دونوں

میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے محبت

کرنے والا ہے۔ جیسے جلوں میں رعایتی

لفظ ہے۔ کیونکہ اس میں کُلٌّ مِّنْھُمَا کا

مفہوم متعین ہے۔

الرَّکِیۡلُوس۔ گر جا کے خادم۔ اس میں

چھوٹے بڑے پارہی بھی شامل ہیں۔

واحد اکلیریکی۔ ج۔ اِکْلِیۡرُ کَلِیۡوۡنَ۔

لفظ عیسائی مذہب کی طرف سے داخل

ہوا ہے۔

کَح۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ استفہامیہ۔ اس کا میز مضروب ہوتا

ہے جیسے کَح دَرْھَمًا لَّکَ۔ بھارتے

کتنے درہم ہیں۔

۲۔ خبریہ یعنی کثیر۔ اس کا میز مجرور ہوتا

ہے جیسے کَح عَبْدٌ اَوْ عَبْدٌ مَلِکٌ

میں بہت سے غلاموں کا مالک ہوں۔

کَح دَن، کَحْنَا۔ چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔

الْبَعِیۡرُ۔ اونٹ کے منہ پر تھوٹھی چڑھانا

۔ النَّاسُ۔ لوگوں کا جمع ہونا۔

کَمَتَّ و کَمَتَّ دَکَنًا و کَمُوۡمًا۔

النَّخْلَةُ۔ کھجور کے درخت میں شکوفہ

آنا۔ صفت۔ مَکَمُوۡمٌ۔

کَمَحَدَاکَمَ۔ الْقَبِیۡصُ۔ کرتے ہیں

آستین لگانا۔

کَمَمَتَّ و اَکَمَتَّ۔ النَّخْلَةُ۔ کھجور

کے درخت کا شکوفہ دار ہونا۔

تَکَمَّہ۔ یَثِیَابِہ۔ کپڑے پہننا۔ اوڑھنا۔

تَکَمَّہ۔ بَکَرْنَا۔ لیٹنا۔

تَکَمَّہ۔ الْقَوْمُ۔ مدہوش ہونا۔ ڈھانکا

جانا۔

الْکَمَّ وَالکَمِیۃُ۔ مقدار۔ الِکَمِیۃُ کم

کی طرف نسبت۔ مؤنث کَمِیۃُ۔

اِکَمَّ۔ آستین۔ ج۔ اِکَمَامٌ و کَمَمَہُ

اِکَمَّہُ۔ گول ٹوپی۔ ڈھکنا۔

اِکَمَّہُ۔ غلاف شکوفہ۔ ج۔ اِکَمَّہُ و



اَلْكُمَامُ دَكُمَامٌ دَاكَا مِيحٌ۔
اَلْكُمَةُ اَلْخَيْلُ۔ توڑے جو گھوڑوں کے سروں پر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ واحد۔ کیمام؟
اَلْكُمَامَةُ۔ بھول کا غلاف۔ کھجور کے شگوفہ کا غلاف۔
اَلْكُمَامَةُ وَ اَلْكِيَامُ۔ تھوٹتی جس سے جانور کے منہ کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ نہ کھا سکے اور نہ وہ کاٹ سکے۔
اَلْكُمُومُ۔ مفع۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ کھجور کا وہ درخت جس میں شگوفہ کا غلاف نکل آئے اَلْكُمُوتَةُ۔ تھوٹتی۔ ایک پھیلی جیسی چیز جو چوپائے کے منہ پر ڈال دی جائے۔
گئی دس گنٹا۔ پوشیدہ ہونا۔ چھپنا۔
عَنِ الْاَحْبَارِ۔ جروں سے ناواقف ہونا۔ بے خبر ہونا۔
كُمُوتٌ۔ بَدَا مِنْهُ اَلْبُرْدُ اِذَا اَلْعَمَلُ نَامَتْ كَا سَرْدِي۔ کام سے پھٹ جانا۔
كُمَا رَن، كُمَا۔ سانپ کی چھتری۔ ایک قسم کا خود رو پودہ۔ کھلانا۔
اَلْكُمَا اَلْكُمَا۔ اَلْمَكَانُ۔ کسی جگہ سانپ کی چھتری بافراط ہونا۔
الرَّجُلُ۔ کسی کو سانپ کی چھتری کھلانا۔ اَلْمِسْقُ فُلَانًا۔ بوڑھا کر دینا۔
تَكُمَاكَ۔ ناپسند کرنا۔ برا جانا۔
تَكُمَاتٌ عَلَيَّهِ اَلْاَرْضُ۔ پوشیدہ کرنا۔ غائب کرنا۔ کہا جاتا ہے ”خَوَّبَ النَّاسُ يَتَكُمُّونَ“۔ لوگ سانپ کی چھتری چننے کے لیے نکلے۔
اَلْكُمُومُ۔ مم۔ سانپ کی چھتری۔ کبھی اس کو شُخُو اَلْاَرْضِ بھی کہتے ہیں۔ جو اَكُمُوْءٌ وَ كُمَاْءٌ۔ یہ پودا ہمارے موسم میں زمین کے نیچے پایا جاتا ہے یہ اردو کی طرح گول جڑ ہوتی ہے جس کا نہ تنہ ہوتا ہے نہ رگیں۔ اس کا رنگ

ٹیلیا پن کی طرف مائل ہوتا ہے۔
اَلْكُمَاْءُ۔ سانپ کی چھتری بیچنے والا۔ یا چننے والا۔
اَلْكُمَاةُ وَ اَلْمَكُمُوْءَةُ۔ سانپ کی چھتری کے پیدا ہونے کی جگہ۔
كُمْتُ رَن، كُنْتُ دَكُمَا تَهُ دَكُمُتَهُ۔
اَلْمَعُوْسُ۔ گھوڑے کا کیت ہونا۔
كُمْتُ كُمُتًا۔ اَلْغِيْظُ۔ غصہ کو مضبوط کرنا۔
كُمْتُ۔ الثَّوْبُ۔ کپڑے کو سیاہی مائل سرخ رنگنا۔
كُمُتُنْتُ تَكُمُيْتًا۔ اَلْحَمْرُ وَ اَلْقَدْسُ وَ غَيْرُ هُمَا۔ شراب اور گھوڑے وغیرہ کو کیت کے رنگ کا بنایا جانا۔
اَكُمْتُ دَكُمْتُ وَ اَلْكُمَاتُ۔ اَلْقَدْسُ۔ گھوڑے کا کیت ہونا۔
اَلْكُمُوتَةُ۔ کیت کا رنگ۔
اَلْكُمُيْتُ۔ مِنَ الْخَيْلِ۔ تذکر اور مؤنث، سرخ اور سیاہ رنگ والا گھوڑا۔ یہ اَكُمْتُ کی خلافت قاعدہ تصغیر ہے۔ ج۔ كُمْتُ۔ اَلْكُمُيْتُ سیاہ و سرخ شراب کو بھی کہتے ہیں۔
کہا جاتا ہے ”خَيْلُ اَلْكُمَاتِي“۔
یعنی کیت گھوڑے۔
اَلْكُمُيْتَةُ۔ جڑ۔ اصل کہتے ہیں۔
”اَخَذَهُ بِكُمُيْتِهِ“ اس نے اسے اصل سمیت لے لیا۔
كُمْتُ۔ چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔
اَلْقَوْبَةُ۔ مشک کو بندھن سے باندھنا۔ اَلْمِسْقَاءُ۔ مشک بھرتا۔
اَلْقَصِيرُ۔ پستہ قد کا دوڑنا۔
اَلْكُمُورُ اَلْكُمَاتِرُ۔ موٹا۔ پستہ قد سخت مضبوط۔
كُمْتُ۔ اَلشَّيْءُ۔ کسی چیز کا اکٹھا ہونا اور ایک دوسرے میں گھسنا۔

اَلْكُمَاتِرُ۔ چھوٹا۔
كُمْتُوِي۔ اَمْرُو۔ وَاحِدُ كُمُتَاتٍ۔
اَلْكُمُتُجُ۔ بَن رَان۔
كُمْتُ رَن، كُمُتَا۔ اَلدَّائِبَةُ۔ چوپایہ کو کھینچ کر ٹھہرانا۔
اَكُمْتُ۔ اَلدَّائِبَةُ۔ چوپائے کو کھینچ کر ٹھہرانا۔ اَلْكُرْمُ۔ انگور کی بیل کے پتوں کے نکلنے کا وقت قریب ہونا اور انگور کا خوشہ نکلنے کی جگہ ظاہر ہونا۔
اَكُمْتُ۔ اَلْوَجَلُ۔ بڑا بنایا جانا۔
اَلْكُمُتُجُ۔ بڑا بنایا ہوا۔ اونچا۔
كُمْتُ رَن، كُمُتَا۔ بِاَلْفِيْهِ۔ تکر کرنا۔
اَلْقَدْسُ بِاَلْكِيَامِ۔ گھوڑے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔
اَكُمْتُ۔ اَلْكُرْمُ۔ پتے نکانے کے وقت خوشہ انگور نکلنے کی جگہ کا ظاہر ہونا۔
اَلْكُمَاتِرُ۔ تکر بڑا بننا۔
اَلْكُمَاتِرُ۔ سانب۔ بعض نے سرکہ کی چٹنی کے لیے مخصوص کیا ہے۔ ج۔ كُمَا وَمُتُ (دخیل)
كُمْتُ رَن، كُمُتَا۔ رَنگ بدلنا۔ اَلرَّجُلُ رَنج و خُم سے دل کی بیماری ہونا۔ صفت
كَامِدٌ وَ كُمِدٌ وَ كُمُيْدٌ۔
كُمِدُ الثَّوْبِ۔ پرانا ہونے کی وجہ سے کپڑے کا رنگ بدلنا۔
كُمِد رَن، كُمُتَا وَ كُمُودَا۔ اَلْقَصَارُ الثَّوْبِ۔ دھوپ کا کپڑے کو کوٹنا۔
اس کا اسم اَلْكُمَادُ ہے۔
اَكُمْتُ۔ اَلْمَهْدُ فُلَانًا۔ غمگین کرنا۔
اداس کرنا۔ دل کو بیمار کرنا۔ وَ كُمُتَدُ اَلْعُضْوُ۔ ٹکڑا کرنا۔ سینکنا۔ صفت
مفعولی۔ مَكُمُودٌ۔
اَلْكُمْتُ وَ اَلْكُمُدُ وَ اَلْكُمُدُجُ۔ رَنگ کا بدلنا اور اس کی صفائی کا جاتا رہنا رَنج۔ سخت غم۔



چیز کا مجموعہ بیان کرنا۔ جمع کرنا۔
الکَمَلُ۔ کامل۔ پورا۔ کہا جاتا ہے۔
”أَعْطَيْتُهُ الْمَالَ كَمَلًا“ میں نے
اسے پورا مال دیا۔ یہ لفظ واحد جمع
دونوں کے لیے آتا ہے۔ یہ نہ تو مصدر
ہے نہ صفت۔ یہ بعینہ اسی طرح
مستعمل ہے جیسے ہم یہ کہیں ”أَعْطَيْتُهُ
الْمَالَ كَمَلًا“۔

الکَمَالُ۔ مص۔ اسم مصدر۔ کہا جاتا ہے
”لَكَ كَمَالُ الشَّيْءِ“۔ تمہارے لیے
تمام چیز ہے۔

الکَمِيلُ۔ کامل۔ الکَامِلُ۔ فا۔ جس
کے اجزاء پورے ہوں۔ جس کی مکمل
صفات ہوں۔ ناقص۔ جر۔ کَمَلْتُهُ۔
تکمیل کی۔ الشَّيْءُ۔ جس سے کوئی چیز
مکمل کی جا سکے۔

الکَمْلُ۔ نیکی یا برائی میں کامل مرد۔
کَمَنَ (ن) و کَمِنَ (س) کَمُونًا۔
پھینکا۔ پوشیدہ ہونا۔ سمجھ میں نہ آنے
والے کام میں دخل دینا۔

کَمَنَ (ن) کَمُونًا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز
کو پوشیدہ کرنا۔

کَمِنَ (س) و کَمِنَ۔ کَمُونًا۔ آنکھ
میں اندھیرا یا پکوں میں ورم ہونا۔

اَلْکَمَنُ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو چھپانا۔
تَكَمَّنَ وَاَلْکَمَنَ۔ چھپنا۔ پوشیدہ
ہونا۔

اَلْکَمْنَةُ۔ آنکھ میں اندھیرا یا پکوں میں
ورم ہونا۔ ایک قسم کی بیماری جس سے
آنکھ کی پلکیں سرخ ہو جاتی ہیں۔

اَلْکَمِينُ۔ بغیر سمجھے بوجھے کام میں دخل
دینے والا۔ جر۔ کَمْنَاعُ۔ ایک
جماعت جو گھات میں لگی رہے۔

اور موقع پا کر دشمن پر حملہ کر دے۔
کہا جاتا ہے۔ ”هَذَا أَمْرٌ فِيهِ

ارادے والا۔ عرب کا محاورہ ہے
کَمِيشُ الْإِنْسَانِ۔ ازار سیٹنے والا۔
یعنی پھرتیلا۔ مضبوط ارادے والا۔
اَلْکَمِيشُ وَاَلْکَمُوشُ وَاَلْکَمِيشَةُ وَاَلْکَمِيشَةُ
اَلْکَمِيشَةُ۔ مِنَ الْإِنْسَانِ جھوٹے
حقن یا پستان والی۔
اَلْاَلْکَمِيشُ۔ جھوٹے پاؤں والا۔ جو تقریباً
نزدیکہ سکتا ہو۔ مُونْتُ کَمِيشَاءُ۔
جر۔ کَمِيشُ۔

کَمَعَرَفُ، کَمَعَا۔ فِي الْإِنْعَاءِ۔ برتن
میں منہ لگا کر پینا۔ قَوَائِدُ الدَّائِرَةِ
چوپائے کی ٹانگیں کاٹنا۔ فِي الْمَاءِ
پانی میں اترنا۔

کَمَعَتِ الدَّائِرَةُ۔ چوپائے کا آہستہ
آہستہ چلنا۔

کَا مَعَتُ۔ اپنے ساتھ ملانا۔ ہم بستری
کرنا۔

اَلْکَمَعَةُ الْإِنْعَاءِ۔ برتن میں منہ لگا کر پینا۔
اَلْکَمَعُ۔ اترنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے قُلُوبُ
فِي كَمَعِهِ۔ فلاں اپنے گھر اور مقام

میں ہے۔ وادی کا گوشہ۔ قباء۔ پست
زمین۔ اَلْکَمَعُ وَاَلْکَمِيعُ۔ ہم

خواب۔

اَلْکَمَعُ۔ ران کی گرہ۔
اَلْکَامِعُ۔ فا۔ قریب کا ساتھی جس سے
کوئی بات پوشیدہ نہ رہے۔

تَكَمَّكَ۔ گول ٹوپی پہنا۔ فِي ثِيَابِهِ۔
کپڑے پہنا۔

اَلْکَمْکَامُ۔ پستہ قد۔ گٹھے بدن کا مُونْتُ
گَمْکَامَةً۔

کَمَلْ (ن) و کَمَلْ (س) و کَمَلْ (د) و کَمَلْ (س)
کَمَلًا وَاَلْکَمُولًا وَاَلْکَمَلًا وَاَلْکَمَلًا
وَاَلْکَمَلًا۔ پورا ہونا۔ کامل ہونا۔

کَمَلْ وَاَلْکَمَلُ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز
کو پورا کرنا۔ وَاَلْکَمَلُ الشَّيْءُ کسی

اَلْکَمَادُ۔ ٹکڑ کرنا۔ سینکنا۔ وَاَلْکَمَادَةُ
سینکنے اور ٹکڑ کرنے کی ٹی۔

اَلْکَمْدُ۔ اللَوْنُ۔ بدلا ہوا رنگ۔
اَلْکَمْرُ۔ ہر وہ عمارت جس میں محراب جیسی
طرز ہو۔ جیسے پُل وغیرہ۔

کَمَزَرَمْنِ، کَمَزَا۔ الْعَجِينُ وَنَحْوُكَ۔
گندھے ہوئے آٹے کے پٹے بنانا۔

اَلْکَمَزَةُ۔ کھجور وغیرہ کا گچھا۔ ریت یا مٹی کا
ٹیلہ۔ جر۔ کَمَزُ۔

کَمَسَ (ن) کَمُونًا۔ تیوری پڑھانا۔
اَلْکَمَسُ۔ پودہ دیکھ نہ سکتا ہو۔

کَمَشَ (ن) کَمَشًا۔ اَلتَّاقَةُ الْاَوْثَنِیْ کے
حقن باندھنا تاکہ وہ اپنے بچہ کو دودھ

دہلا سکے۔ فَلَانًا بِالْاَسْفِیْ۔ تلوار
سے اعضا کاٹنا۔ اَلْاَزَادُ۔ توشہ

ختم ہونا۔
کَمِشَ (س) کَمِشًا۔ پھرتیلا اور مضبوط

ارادے کا ہونا
کَمِشَ (ن) کَمِشَةً۔ بہادر ہونا۔

کَمِشَتِ الْمَرْأَةُ۔ عورت کی پستانوں کا
چھڑا ہونا۔ وَاَلْکَمِشُ فِي السَّيْرِ

وغیرہ۔ تیز چلنا۔
اَلْکَمِشُ۔ اَلتَّاقَةُ الْاَوْثَنِیْ کے پورے

حقن کو باندھ دینا۔
کَمِشَ۔ الْحَادِیْ بِالْاَسْقِ۔ حدی

پڑھنے والے کا محنت سے مانگنا۔
فَلَانًا۔ حدی کرنا۔ دَیْلُکَ۔ دامن

سمیٹنا۔
اَلْکَمِشُ وَاَلْکَمِشُ۔ الرَّجُلُ۔ دوڑنا۔

تَلْکَمِشُ۔ اَلْجِلْدُ وَنَحْوُكَ۔ کھال وغیرہ
کا سکرنا۔

اَلْکَمِشُ الثَّوْبَ بَعْدَ الْغُسْلِ۔ کپڑے
کا دھونے کے بعد سکرنا۔

اَلْکَمِشُ وَاَلْکَمِشُ وَاَلْکَمِشُ۔
مِنَ الرَّجَالِ۔ پھرتیلا۔ مضبوط



کَمِئِينَ: یہ معاملہ ایسا ہے جس میں ناقابل فہم خرابی ہے۔
 الْكَمُونُ: زیرہ۔ الْكَمُونُ الْحُلُو: انیسویں۔ واحد كَمُونَةٌ؟
 الْمَكْمَنُ: چھپنے کی جگہ۔ جہ۔ مَكَامِنُ الْمَكْمَنِينَ: رنجیدہ۔
 الْمَكْجَحَةُ: دوتا۔ سارنگی (دخیل) کبھ دس، گمہا۔ اندھا ہونا۔ رات کو دکھائی نہ دینا۔ الْتَهَارُ: دن کا غبار آلود ہونا۔ الرَّجُلُ: کسی کا رنگ بدلنا اور عقل زائل ہونا۔
 بَصْرًا: آنکھ میں تاریکی کا چھا جانا اور دکھائی نہ دینا۔ صفت اَكْمَهُ: مؤنث كَمْهَاءُ۔ جہ كُمَهُ: اَلْاَكْمَةُ: پیدائشی اندھا۔
 تَكْمَهُ: فی الارض۔ زمین میں بھٹکتے پھرنا۔ صفت کَامَهُ و مُتَكْمَهُ: کہا جاتا ہے: ذَهَبَتْ رَابِلُهُ كُمَيْهِي: اس کے اونٹ بھٹک گئے۔
 مُكْمَهُ الْعَيْنَيْنِ: وہ شخص جس کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔
 كَمَهَلُ: الرَّجُلُ: کسی کا کپڑوں کو سمیٹ کر سفر کے لیے باندھنا۔ عَلَيْنَا: حق روکنا۔ الْحَدِيثُ: بات چھپانا اور اسے معمر بنا دینا۔ الْمَالُ: مال جمع کرنا۔
 تَكْمَهَلُ: الشیء: کسی چیز کا جمع ہونا۔
 اَكْمَهَلُ: الرَّجُلُ: سمٹ کر بیٹھنا۔
 كَمَى يَكْمِي دَمًا: کَمِيًا: وَاكْمَى شَهَادَتَهُ وَغَيْرَهَا: گواہی دینا۔
 کَمَى وَاكْمَى: نَفْسَهُ: اپنے آپ کو

زیرہ و خود سے چھپانا۔
 اَكْمَى: عَلَى الْأَمْرِ: پختہ ارادہ کرنا۔
 الْمُحَارِبُ: فوج کے زیرہ پوش بہادر کو قتل کرنا۔ السَّجْلُ: مَنَزِلَةٌ: گھر کو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ کرنا۔
 تَكْمَى: الشیء: کسی چیز کا چھپنا۔
 الشیء: کسی چیز کی حفاظت کرنا اور چھپانا۔
 تَكْمَتُ: الْفِتْنَةُ النَّاسِ: فتنہ کا لوگوں کو گھیر لینا۔
 تَكْمَى: الْجَيْشُ: فوج کے بہادر زیرہ پوش کا قتل ہونا۔ الْقَوْمُ: لوگوں کا مدبوش ہو جانا اور نرغے میں آنا۔
 اَكْمَى: پوشیدہ ہونا۔
 اَكْمَى: اَكْمَاءُ: چھپنا۔
 اَلْاَكْمَى: بہادر۔ بھتیجا۔ زیرہ پوش رازدان۔ جہ۔ کَمَاءٌ وَاكْمَاءُ: اَلْمُتَكْمَى: بھتیجا۔ بند۔
 كَمَنَ دَمًا: كَمُونًا وَاكْمَنَ وَاكْمَنَ: الشیء: گھریں چھپانا۔
 اور دھوپ سے بچانا۔ الْعِلْمُ وَغَيْرُهُ فِي نَفْسِهِ: علم وغیرہ کو دل میں چھپانا۔
 اَكْمَنَ: الرَّجُلُ: مرد کا چھپنا۔ الشیء: کسی چیز کو چھپانا۔
 تَكْمَى تَكْمِيًا: ہمیشہ گھریں رہنا۔ (اصل لفظ تَكْمَنَ ہے)
 اَسْتَكَمَ: چھپنا۔ گھر کی طرف لوٹنا۔
 اِكْمَنَ: ہر چیز کی حفاظت اور اس کو چھپانا۔
 گمہ۔ جہ۔ اَلْاَكْمَانُ وَاكْمَانُ: اَلْاَكْمَةُ: کَمَنَ کا اسم مرہ ہے۔ ہو یا بھاج۔ جہ۔ کَمَانِينَ۔
 اَلْاَكْمَةُ: کسی چیز کی حفاظت اور پردہ پوشی

سفیدی۔
 اَلْاَكْمَةُ: چھپ۔ اَلْاَكْمَةُ: کوٹھری کے اندر چھوٹی کوٹھری۔ جہ۔ کَمَانٌ وَاكْمَانٌ۔
 اَلْمَكْمَانُ: چیز کی حفاظت اور اس کی پوشیدگی۔ جہ۔ اَلْاَكْمَةُ: اَلْاَكْمَةُ: ترکش۔ تیردان (چمڑے یا لکڑی کا)۔ جہ۔ کَمَانِينَ وَاكْمَانَاتُ: کَاوُنُ الْأَوَّلِ وَاكْمَانُ الثَّانِي: رومی مہینے، مطابق دسمبر و جنوری۔
 اَلْاَكْمَانُ وَاكْمَانُ: اَلْاَكْمَانُ: چولہا۔ جہ۔ گَوَانِيْنِ: گراں اور بار خاطر شخص جس کی صحبت سے کنارہ کشی کی جائے وہ شخص جو بیٹھ کر واقعات کا پتہ چلائے اور ان کی تحقیقات کرے۔
 اَلْاَكْمَانُ: چھپا ہوا۔
 اَلْمُسْتَكْمَلَةُ: کینہ۔
 كَذَبَ دَمًا: كَمُونًا: الرَّجُلُ: سخت ہونا۔ فقیری کے بعد مالدار ہونا۔
 كَذَبَ دَمًا: كَمَانًا: الشیء: فِي جَرَابِهِ: جمع کرنا۔ ذخیرہ کرنا۔
 كَذَبَ دَمًا: كَمَانًا: الْيَدُ: ہاتھ کا کام کرنے سے سخت ہونا۔
 اَلْاَكْمَانُ: الشیء وَالْيَدُ: سخت ہونا۔
 اَلْاَكْمَانُ: لَمَانَةً: زبَان رَکْنَا: عَلَیْهِ بَطْنُهُ: پیٹ کا سخت ہونا۔
 اَلْاَكْمَانُ: فَالْاَكْمَانُ: شکم سیر۔
 اَلْاَكْمَانُ: مَمًا: کام کرنے سے ہاتھ کی سختی۔
 اَلْاَكْمَانُ: خَوْضُهُ خَرَامًا۔
 اَلْاَكْمَانُ: خَشْكُ دَرَخْتِ: اَلْاَكْمَانَةُ: ظالم خبیث۔
 اَلْاَكْمَانُ وَالْمَكْمَانُ: کھودنے والا جس کے ہاتھ کام کی وجہ سے سخت ہو گئے ہوں۔ حَافِزٌ مَكْمَانٌ وَاكْمَانٌ: سخت کھڑ۔
 اَلْمَكْمَانُ: پستہ قد۔ سخت بدن والا۔



كَنْبَتْ وَتَكْنَبَتْ - الرَّجُلُ سَكُنَا.
رَجُلٌ كَنْبَتْ وَكَنْبَتْ. گھٹے
بدن کا مرد مضبوط اور طاقتور مرد۔

الْكَنْبَاتُ - گرنے والی ریت۔
الْكَنْبَرَةُ - ناک کا موٹا سرا۔
تَكْنَبَشٌ - القوم - لوگوں کا خط ملط
ہونا۔

الْكَنْبُوشُ وَالْكَنْبُوشُ - زین کے نیچے
کا منہ - عرق گیر - منہ پھیلانے کا برقع۔
جر - گنابلیش۔ (دخیل)

كَنْتَ دَن، كَنْتَا - فِي خَلْقِهِ طاقُور
ہونا۔

كَنْتَ دَس، كَنْتَا - السِّقَاءُ مشك کا
کھوڑا اور سخت ہونا۔

اَكْتَنْتَ - الرَّجُلُ اطاعت کرنا۔
نوش ہونا۔ سِقَاءُ كَنْبَتْ - پانی
روکنے والی مشک جو پکیتی نہ ہو۔

الْكَنْبُوشُ - قوی مضبوط۔

كَنْبَاتٌ كَنْبَاتٌ - اللِّحْيَةُ ڈاڑھی
کا لمبا اور گھنا ہونا۔ رَجُلٌ كَنْبَاتٌ
اللِّحْيَةُ وَكَنْبَاتٌ هَا - لیس اور گھنی
ڈاڑھی والا مرد۔

كَنْتَ دَن، كَنْتُودَا - النِّعْمَةُ نعمت
میں ناشکری کرنا۔ كَنْتَا - الشَّيْءُ
کسی چیز کو کاٹنا۔

اِكْنَدَا - پھاڑ کا ایک ٹکڑا۔

اَلْكَنْدُ - ناشکر اور مذکور مؤنث،

اَلْكَنْوُدُ - ناشکر گزار۔ بخیل۔ گناہگار۔

خدا کو ملامت کرنے والا۔ نعمتوں کو

بھولنے والا۔ اور مصائب کو شمار کرنے

والا۔ (مذکور مؤنث) اَرْضُ كَنْوُدٌ

بنجر زمین۔

اَلْكَنْتَا - ناشکر گزار۔ ہر ت کاٹنے والا۔

اَلْكَنْدُ - ایک خاردار درخت کا گوند۔

مضبوط بناوٹ والا۔ جمع کی صورت میں

کہا جائیگا۔ قَتِيَانٌ كِنَادِ سَمَاءُ -

مضبوط بناوٹ کے حوالہ۔

اَلْكَنْدَرَةُ - باز کے بیٹھنے کی جگہ۔ سخت

اور اونچی زمین۔

اَلْكَنْدَارُ - بیر (دخیل)

اَلْكَنْدَارِيُّ - ایک خوش الحان پندہ ہے

جس کے بازو کے اگلے پر لمبے ہوتے

ہیں اور اس کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے

اور جزائر کناریہ کی طرف منسوب ہے

جو جزائر خلدات بھی کہلاتے ہیں۔

اَلْكَنْدَارَةُ وَالْكَنْدَارَةُ - بربط۔ ڈھول

یاد۔ جر گناہیرو کینارات۔

اَلْكَنْدَارَةُ - کسان کے کپڑے کا ٹکڑا

(دخیل)

كَتَزَ رَضٍ، كَنْزَا - المَالُ مال جمع کرنا۔

ذخیرہ کرنا۔ زمین میں دفن کرنا۔ الرَّحْمُ

نیزہ کو زمین میں گاڑنا۔ الشَّيْءُ فِي

وَعَايَ اوْ اَرْضٍ - کسی چیز کو برتن یا

زمین میں ہاتھ سے دبانا۔ السِّقَاءُ

مشک کو بھرنے۔ كَنْزَا اوْ كَنْزَا

- التَّمَرُ - ذخیرہ کرنا۔

اَكْتَنَرَ - بھر جانا۔ جمع ہونا۔ اللَّحْمَ

گوشت کا جمع ہونا اور سخت ہونا۔

الشَّيْءُ فِي الْوَعَايَ - کسی چیز کو برتن

میں ہاتھ سے دبانا۔

تَكْنَزُ - لَحْمًا گوشت کا اکٹھا ہونا۔

اور سخت ہونا۔

اَلْكَنْزُ - مہم۔ ہر ذخیرہ کی ہوئی عمدہ چیز۔

زمین میں دفن کیا ہوا مال۔ وہ چیز

جس میں مال محفوظ کیا جائے جیسے

صندوق، خزانہ وغیرہ۔ جر۔ كَنْزُ

کہا جاتا ہے: نَشَدَ كَنْزُ الْقَدَرِ بَلَدٌ

اس نے مشک بھری۔ رَجُلٌ كَنْزُ

اللَّحْمِ وَكَنْزُ رُكَا وَ

مُكْنَزُوكَا۔ بہت اور سخت گوشت

والا مرد۔ كِتَابٌ مُكْتَنَزٌ

بِالْقَوَائِدِ - فوائد سے بھری ہوئی

کتاب۔

اَلْكَنْزُ - کھجور یا گیہوں ذخیرہ کرنے کا وقت۔

اَلْكَنْزُ - ٹھوس اور مضبوط گوشت والا۔ کہا

جاتا ہے: "جَارِيَةٌ اَوْ نَاقَةٌ كَنْزٌ"

ٹھوس اور بہت گوشت والی لونڈی یا

اونٹنی۔ جر۔ كَنْزٌ وَ كَنْزٌ -

اَلْكَنْزُ - کھجوریں جو سردی کے زمانہ کے

لیے جمع کی جاتی ہیں۔

اَلْكَنْزُ - مال کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے

والا۔

اَلْمَكْنَزُ - جہاں ذخیرہ کیا جائے۔ جر۔

مَكَانِزُ -

كَتَسَ دَن، كَنْسَا وَ كَنْسَ - اَبْيَتْ -

گھریں جھاڑو دینا۔ کہا جاتا ہے۔

"كَتَسَ فِي وَجْهِهِ فُلَانٌ" اس نے

فلاں سے مذاق کیا۔ مَوْرُؤٌ يَهْمُ

فَكَنْسُوهُ - وہ ان کے پاس سے

گزرے اور ان کی بیخ کنی کر دی۔

كَتَسَ دَن، كُنُوسَا وَ كَنْسَ - النُّظْمُ

ہرن کا غائب ہو کر اپنی پناہ گاہ میں

پناہ لینا۔

تَكْنَسَ - الرَّجُلُ مرد کا اپنے خیمے میں

داخل ہونا۔ تَكْنَسَتِ الْمَرْأَةُ -

عورت کا ہودہ میں داخل ہونا۔

اَلتَّكْنَسَتِ النِّبْطَاءُ وَ الْبَقَرُ - ہرنیوں

یا گائے کا اپنی پناہ گاہ میں داخل ہونا۔

اَلتَّكْنَسَةُ - کوڑا کرکٹ۔ کوڑا کرکٹ کی

جگہ۔

اَلْمَكْنَسُ - توڑا۔ یہودیوں کا عبادت خانہ۔

اَلْمَكْنَسَةُ - عند النصارى۔ گرجا۔

عیسائی اپنے مذہب کے مومنین پر بھی

اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ یہودیوں کا

عبادت خانہ۔ جر۔ كَنْزُ لَسُ -



الْكِنَاسُ - ہرن کی پناہ گاہ - جر - اَكْنَسَهُ وَكُنُسَ .

الْكَايَسُ - فا - ہرن جو اپنی پناہ گاہ میں داخل ہو - جر - كُنُسٌ وَ كُنُوسٌ وَ كَوَانِيْسٌ - الْجَوَارِيَا لَكُنُوسٍ - ستارے، تیل گائے یا برنیاں .

الْمَكْنَسُ - تھاکروب - جھاڑو دینے والا - اَلْمَكْنَسَةُ - جھاڑو - جر - مَكْنَسٌ .

الْمُكَايَسُ - ہمیشہ پناہ گاہ میں رہنے والا - اَلْمَكْنَسُ - وحشی جانوروں کی جھاڑی .

جہاں وہ گرمی میں پناہ لے سکیں - كُنُسٌ دَن، كُنُشَا - الثَّوْبُ - کپڑے کے کنارے ٹہنا - اَلْمَسْتَوَاتُ

الْحَشِيشُ - سخت مسواک کے سرے کو نرم کرنا .

اَلْكُنْشَةُ - عَيْنُ الْأَمْرِ - کام جلدی کرنا - اَلْكُنْشَةُ - نوٹ بک دیان، جس میں

مغفید اور نادر باتیں لکھی جائیں - اَلْكُنْشَاتُ - جڑیں جس سے شاخیں پھوٹیں

واحد كُنْشَةٌ .

اَلْكُنْشَاءُ - مِنَ الرِّجَالِ - چھوٹے چھوٹے گنگھریالے بال والا - بد صورت مرد -

كُنْصٌ - متخیر کے طور پر ناک کو حرکت دینا - اَلْكُنْصُ - لاقوترا و نط و غیرہ -

كُنْظَرُنْ ص، كُنْظَا وَ تَكُنْظَا - الْأَمْرُ فَلَا تَا - رنجیدہ کرنا -

اَلْكُنْظَةُ - رنج و غم - دباؤ - كُنْعٌ رَف، كُنُوعًا - سٹنا - ملنا - عَرَن

الْأَمْرِ - بزدل ہونا - بھاگنا - اَلنَّجْصُ - ستاروں کا غروب ہونے

کے قریب ہونا - اَلْكَيْفُ - عاجزی کرنا اور نرم ہونا - فَيَهِ - لاریج کرنا -

بِاللَّهِ - خدا کی قسم کھانا - الْأَمْرُ کسی کام کا قریب ہونا - اَلْمَسْكُ

بِالثَّوْبِ - مُشْكٌ کاپڑے سے چپکنا

الْعُقَابُ - عقاب کا حملہ کرنے کے لیے بانوؤں کو سہیلنا - أَصَابِعُهُ

انگلیوں کو مار کر خشک کرنا - كِنْعٌ دَس، كُنْعًا - خشک ہونا - سکرنا -

صفت كِنْعٌ - الرَّجُلُ - مرد کا پچھاڑا جانا - اَلشَّيْءُ - کسی چیز کا لازم

ہونا اور ہمیشہ رہنا - كِنْعٌ - اَلشَّيْءُ - کسی چیز پر قبضہ کرنا اور

سمیٹنا - يَدٌ كَا - ہاتھ کو شل کرنا - تَحْشَكُ کرنا - فَلَانًا بِالسَّيْفِ

کسی کی ہاتھ کی کلائی پر تلوار مارنا - عَنَهُ - اَلْكَ - ہونا - کنارہ کشی

کرنا - اَكْنَعُ - عاجزی کرنا نرم ہونا - رَسَوَاتِي

کے قریب پہنچنا - سوال کرنا - اَلْعُقَابُ - عقاب کا جھپٹنے کے لیے

بانوؤں کو سہیلنا - اَلْقَوْمُ - لوگوں کا جمع ہونا - اَلْأَبْلُ - اونٹوں کو قریب

کرنا - تَكْنَعُ - قلعہ بند ہونا - اَلْأَسِيرُ فِي قَيْدِهِ

قیدی کا تسمہ سے باندھا جانا - یہ تعلق رکھنا - چٹنا -

اَكْتَنَعُ - حاضر ہونا - قریب ہونا - عَلَيْهِ مَرِيَانُ ہونا - اَلْقَوْمُ - لوگوں کا

جمع ہونا - فَلَانٌ مِّنِي - قریب ہونا -

اَلْكَايَعُ - فا - نزدیک و قریب - جو ایک دوسرے سے قریب ہو - کہا جاتا ہے

أَنْفٌ كَايَعٌ - چپٹی ناک جو چہرے کے قریب ہو - اَلْأَسِيرُ كَايَعٌ - تسمہ

سے بندا ہوا قیدی - رَجُلٌ كَايَعٌ - وہ شخص جو مع اہل و عیال کسی کے پاس رہے اور اس کے احسان و

بخشش کا امیدوار ہو - اَلْكُنْيَعُ - سکر ہوا - راستہ سے ہٹا ہوا -

اَلْكُنْيَعُ - پردہ - پردہ کرنے والا - ڈھال

لُطُے ہوئے ہاتھ والا - مِنَ الْجَوْرِ - سخت بھوک -

اَلْكُنَاعُ - بیماری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کا چھوٹا ہونا اور ایسا معلوم ہونا کہ اس کے

ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے یا مڑے ہوئے ہیں -

اَلْأَكْنَعُ - مِنَ الْأُمُورِ - ناقص کام - جر - كُنْعٌ - يَدٌ مُكْنَعَةٌ - شل ہاتھ -

اَلْمَكْنُوعُ - دونوں ہاتھ کٹا ہوا - كَنَفٌ دَن، كُنْفًا - اَلشَّيْءُ - کسی چیز کی

حفاظت کرنا - اپنے میں شامل کرنا - اَلْأَيْلُ دِلَّالِي - اونٹوں کے لیے بارھ

باندھنا - عَنَهُ - کسی سے الگ ہونا - کنارہ کشی کرنا - الدَّارُ - گھر میں پردہ

کی چیز باندھنا یا پاخانہ بنانا - يَدُهُ - پانی وغیرہ حاصل کرنے کے لیے اوک

کی طرح ہاتھوں کو ملانا - فَلَانًا عَنِ الْأَمْرِ - کسی کو کام سے روکنا -

كَنَفٌ وَ اَكْنَفٌ وَ كَاَفٌ - الرَّجُلُ کسی کی مدد کرنا -

كَنَفٌ - الرَّجُلُ - کسی کو گھیر لینا - احاطہ کرنا -

اَكْتَنَفَ - اونٹوں کے لیے بارھ بنانا - تَكْنَفَ - اَلْقَوْمُ فَلَانًا - کسی کو گھیر لینا -

اَكْتَنَفَ اَلْقَوْمُ - پاخانہ بنانا - اَلْكِنْفُ - سوداگر یا چرواہے کے سامان

رکھنے کا برتن - اَلْكِنْفُ - جانب - سایہ - پرندہ کا بانو - جر

اَكْنَفٌ - اَكْنَفٌ - انسان کا پہلو یا دونوں بانو یا سینہ - کہا جاتا ہے : أَنْتَ

فِي كَنَفِ اللَّهِ - تم اللہ کی حفاظت اور رحمت میں ہو - اَلْكِنْفَةُ - گوشہ -

کنارہ - ناجیہ - اَلْكِنْفُ - پردہ - پردہ کرنے والا - ڈھال



موشیوں کے لیے درختوں کا باڑہ۔ پاخانہ
دروازہ کے اوپر کا چھجہ۔ جہ۔ کُفْتُ
وَكُفْتُ۔

الْكَاِفَةُ۔ روکنے والا۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ
مُكْتَفٍ الْحَيَّةِ۔ بڑی اور گھنی داڑھی
والا مرد۔

كُفْتُ۔ گھریں بیٹھنا۔ کاہل کرنا۔ بھاگنا۔
اَكْتَهْ اَو اَكْتَهْ۔ اَشْيَ۔ اصل حقیقت
معلوم کرنا۔

اَلْكُفَةُ۔ حقیقت۔ اصلیت۔ ماہیت۔
مقصد۔ وقت۔

كُنَا يَكُونُوا وَكُنَى يَكْنِي كِتَابَةً۔ بالشیء
عَنْ كَذَا۔ کنا یہ کرنا۔ ایک لفظ ہونا
اور دوسرے مفہوم کا ارادہ کرنا۔ مثلاً یہ
کہا جائے زَيْدٌ كُنِيَ الرَّمَادِ۔

زید بہت راکھ والا ہے۔ مگر اس سے مراد
یہ ہے کہ زید بہت سخی ہے۔ متکلم کو
گان اور لفظ کو مُكْنِي عَنْهُ کہتے ہیں۔
كُنَى يَكْنِي كُنْيَةً وَكُنْيَةً دُكْنَى۔
كُنْيَةً اَو اَكْنَى اَلْكُنَاءُ اَزِيدُ اَبَا
فُلَانٍ وَكُنَاهُ وَكُنَاهُ بِأَيِّ فُلَانٍ۔
کسی کی کنیت رکھنا۔

كُنَى تَكْنِيًا وَاَكْتَنَى اَلْكُنَاءُ اِ
بَكْدًا۔ اپنی کنیت رکھنا۔ كُنَى
الرَّجُلُ۔ کسی آدمی کا کوئی کنیت رکھنا
تاکہ وہ اس نام سے مشہور ہو جائے۔
چھپنا۔

اَلْكُنْيَةُ وَاَلْكُنْيَةُ وَاَلْكُنْيَةُ وَاَلْكُنْيَةُ
وہ نام جو کسی کی تعظیم یا علامت کے
لیے بولا جائے۔ وہ نام جو اَبَ۔ اُمُّ
اِبْنُ یا بِنْتُ سے شروع ہو۔ جہ۔
کُنَى وَكُنَى۔

اَلْكُنْيَةُ۔ مہ۔ اصطلاح میں کنایہ اس کو
کہتے ہیں کہ کسی مفہوم کو ایسے لفظ سے ادا
کیا جائے جو اس مفہوم کو صاف طور پر

ادانہ کرتا ہو۔ تاکہ عام لوگ اس بات
کو نہ سمجھیں۔

اَلْكُنَى۔ جہ۔ كُنَاةٌ وَكَاوُنٌ۔

اَلْكُنَى۔ ایک ہی کنیت والا۔ ہم کنیت۔
کہتے ہیں اَلْكُنَى كُنْيَتُهُ۔ دونوں کی
ایک ہی کنیت ہے۔ جیسے یہ کہیں
اَلْكُنَى۔ وہ دونوں ہم نام ہیں۔

كُفْتُ دَسْ وَكُفْتُ دَسْ، كُفْتُ وَ
كُفْتُ بَا۔ سیاہی مائل بھورا ہونا۔
صفت کا کُفْتُ وَ اَلْكُفْتُ۔

اَلْكُفْتُ وَ اَلْكُفْتُ بَا۔ لَوْنُ۔
رنگ تبدیل ہونا۔

اَلْكُفْتُ۔ سیاہی مائل بھورا رنگ۔
رَجُلٌ اَلْكُفْتُ اَللَّوْنِ۔ رنگ
تبدیل کرنے والا مرد۔

كُفْتُ دَسْ، كُفْتُ اَدْكُفْتُ اَنَّا۔ اَلْحَمَارُ
گدھے کا دوڑنا۔ اَلْحَمَارُ۔ گدھے کو
دوڑانا۔ اَلرَّجُلُ فِي الطَّلَبِ۔
مطالبہ میں اصرار کرنا۔

اَلْكُفْتُ۔ نکلنا۔ فلاں کسی کو نکلنا۔
اَلْكُفْتُ مَشَقَتْ۔ اَلْكُفْتُ اِ۔ لوڑی۔
کہا جاتا ہے۔ اَنَّا كُفْتُ اَلْيَدَيْنِ
تیز رفتار گدھی۔

كُفْتُ دَسْ، كُفْتُ اِ۔ فلاں کسی سے بوجھ
حقارت ترشروی سے پیش آنا۔ جھڑکنا۔
قہ کرنا۔ خسروامادی کا تعلق رکھنا۔
اَلرَّهَارُ۔ دن چڑھنا۔ اَلرَّجُلُ۔

ہند۔ اِ۔ اَلرَّجُلُ۔ گرمی کا سخت
ہونا۔

اَلْكُفْتُ وَ اَلْكُفْتُ وَ اَلْكُفْتُ۔ بد اخلاق ترشرو
جو لوگوں کو جھڑکے۔ جہ۔ کُفْتُ اِ
اَلْكُفْتُ وَ اَلْكُفْتُ۔ ترشروی۔

كُفْتُ دَسْ۔ اَشْيَ۔ کسی چیز میں بجلی کی
طاقت بھرا۔

اَلْكُفْتُ بَا وَ اَلْكُفْتُ بَا۔ ایک درخت کا

گوند ہے جسے اگر گرگڑا جائے تو تنکا وغیرہ
کو کھینچ لیتا ہے۔ دراصل یہ لفظ فارسی

کا دخیل ہے جو اس طرح تھا۔ کاہ رُبا۔
یعنی گھاس تنکے وغیرہ کو کھینچنے والا۔ بجلی

جو حرارت یا گرگڑا کیمیائی عمل سے پیدا
ہوتی ہے اور اس کا عمل سبب و کشش

روشنی دینا۔ حیوانی اعصاب کو برا لگینے
کرنا۔ پانی کی تحلیل وغیرہ ہے۔

اَلْكُفْتُ بَا اَلْكُفْتُ بَا۔ بجلی کی
طاقت۔

تَكُفْتُ۔ اَلْجَبَلُ۔ پہاڑ میں غار ہونا۔
اَلْكُفْتُ۔ غار میں داخل ہونا۔

اَلْكُفْتُ۔ پہاڑ میں کھد ہوا ایک وسیع
گھر۔ کھوہ (غار) اور کھفت میں
یہ فرق ہے کہ غار چھوٹا ہوتا ہے اور
کھفت وسیع ہوتا ہے۔ جائے پناہ۔

كُفْتُ۔ اَلْمَقْرُوسُ۔ سردی زدہ کا
سانس سے ہاتھوں کو گرم کرنا۔ اَلْمَسْدُ
وَالْبَعِيْرُ۔ شیر اور اونٹ کا کہہ کر کی آواز
نکالنا۔ اَشْيَ۔ کسی چیز کا گرم ہونا۔

تَكُفْتُ۔ عَنَهُ۔ منعیف اور کمزور ہونا۔
اَلْكُفْتُ۔ مہ۔ گرمی، بشیر یا اونٹ

کی آواز کی نقل۔ شیعہ کُفْتُ۔
بوڑھا جو سانس سے اپنے ہاتھ گرم

کرے۔
اَلْكُفْتُ وَ اَلْكُفْتُ۔ کمزور۔

خوف ناک۔
كُفْتُ دَسْ، كُفْتُ اَو كُفْتُ۔

ادھیڑ عمر کا ہونا۔

كَاهَلٌ مُكَاَهَلَةٌ۔ اَلرَّجُلُ۔ شادی
کرنا۔ ادھیڑ عمر کا ہونا۔

اَلْكُفْتُ۔ ادھیڑ عمر کا ہونا۔ تَكُفْتُ اَلنَّبَاتِ۔
پودے کا پوری لمبائی کا ہونا۔

اَلْكُفْتُ وَ اَلْكُفْتُ۔ ادھیڑ عمر۔ ادھیڑ پر۔
اَلْكُفْتُ۔ ادھیڑ عمر کا۔ تیس سے پچاس سال

نیک کی عروالا۔ جہ۔ کھٹون و
کھون و کھان و کھلا و
کھن۔
الکھلہ۔ کھل کا ٹوٹ۔ جہ۔ کھلا و
کھلا و۔
الکھل۔ فہ۔ گردن کے قریب پیچھے کا بالائی
حصہ۔ جہ۔ کھلا۔ گاہل
القوم۔ قوم کا معتمد۔ کہا جاتا ہے۔
”فلان شہید الکھل“ فلاں
صاحب جاہ و جمال ہے۔
الکھول۔ کڑی۔
کھمت (ف) کھما۔ الشدائد فلان۔
مشکلات کا کسی کو ڈرانا۔ آگے بڑھنے
سے بزدل بنانا۔
کھمد (دس) و کھمد (د) کھامہ و
کھوما۔ کمزور ہونا۔ السیف۔
تلوار کا کند ہونا۔
کھمد کھما (ف) کھامہ و کھمد۔
الرجل۔ لڑائی اور مدد سے سستی کرنا۔
اکھمد۔ بصرہ۔ نگاہ کمزور ہونا۔
الکھام و الکھیم۔ سست۔ عمر رسیدہ۔
جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ جمع کی
صورت میں بھی قوم کھام کہا جاتا
ہے۔
کھمس۔ الرجل۔ چلنے میں دونوں
پاؤں کو قریب قریب رکھنا۔ چلنے میں
غبار اڑانا۔
الکھمس بشیر۔ بھیڑیا۔ بد صورت
پستہ قدم۔
کھن دفن کھانہ و کھن تکھن
و تکھینا۔ یفلان غیب کی باتیں
بتانا۔
کھن (د) کھانہ۔ کاہن بن جانا یا کمانت
کی عادت اختیار کرنا۔ طبیعت اور مزاج
میں کمانت سرایت کر جانا۔

کاهن مکھنہ۔ بخشش کرنا۔ میل
ملاپ کرنا۔
الکھانہ۔ کاہن کا پیشہ۔
الکھنوت۔ کاہن کا فریضہ۔ کاہن کا مرتبہ
یسو الکھنوت۔ مسیحی مقدس کنیسہ
کے سات رازوں میں سے ایک راز
ہے جس کی بروقت کاہن حضرت مسیح
کے جسم اور ان کے خون کو مقدس تلاوت
میں پاک قرار دیتا ہے اور گناہوں کو
معاف کرتا ہے یہ کلمہ عیسائیت
سے دخیل ہے)
الکھن۔ فا۔ وہ جو اسرار الہی اور غیبی
باتوں کے علم کا مدعی ہو۔ یہود اور
بت پرستوں کے نزدیک وہ شخص جو
ذبیحے اور قربانیاں پیش کرے۔ پروہت
عیسائیوں کے نزدیک وہ شخص جو
کھنوت کے درجہ تک ترقی کر کے پہنچ
جائے۔ وہ شخص جو کسی کی حاجت روائی
کے لیے کوشش کرے۔
کھلی کھلی کھلی۔ چہرہ پر جھانپنا ہونا۔ گندہ
دہن ہونا۔ بزدل اور کمزور ہونا۔
کاہی مکھا کا۔ الرجل۔ باہم فخر
کرنا۔
اکھلی۔ انگلیوں کے اطراف کو سانس سے
گرمی پہنچانا۔ عین الطعام۔ کھانے
سے باز رہنا۔
اکتھا۔ اکتھا۔ تنظیم و احترام کرنا۔
الاکھلی۔ چہرے میں جھانپنا والا۔ گندہ دہن
بزدل۔ بے شکاف کا پتھر۔
الاکھلی۔ شریف لوگ۔
کاء یکو کوء کاء و کاء۔ عتہ۔
کسی سے ڈرنا۔ بزدل ہونا۔
اکاء کاء کاء و اکاء۔ کسی کام کا
ارادہ کر کے اچانک اس سے خوفزدہ
ہو کر چھوڑ دینا۔

الکاء و الکاء و الکاء و الکاء و الکاء و
کمزور دل۔ بزدل۔
کات یکو کوء کاء و اکتاب۔ بے دستے
کے کوزہ سے پینا۔
کوب۔ الشی۔ بٹے سے کوٹنا۔
الکوب۔ بے دستہ کا پیالہ۔ جہ۔ اکواب۔
الکوبہ۔ گزری ہوئی بات پر حسرت و
افسوس۔
الکوبہ۔ شطرنج۔ زو۔ ڈکڑگی۔ طبلہ،
دوا پینے کا بٹ۔
کوت۔ الذرع۔ کھیتی میں چار پانچ پتوں
کا ہونا۔
الکوت۔ جوتا۔
الکوتہ۔ سرسبزی و خوشحالی۔ عمدہ
پیداوار ہونا۔
تکوت۔ الغبار۔ غبار کا زیادہ اور تہ بہ تہنا
الکوت۔ بہت اور تہ بہت غبار۔ بہت بڑا
فیاض سردار۔ جنت کی ایک نہر۔
الکوت و الکوت۔ جہاز کا پھللا حصہ۔
کاحہ یکو حہ کوحہ و اکاحہ و
کاحہ مکا و حہ و اکا و حہ
اکاحہ۔ لڑائی میں غالب آنا۔
کاحہ۔ الشی۔ پانی میں ڈبونا۔ مٹی میں
دبانا۔
کوحہ۔ کسی کو غالب کرنا۔ کوحہ فلان۔
ذیل کرنا۔ رد کرنا۔
کوحہ۔ الزمام البعیر۔ اونٹ کو قابو کرنا۔
کاحہ۔ گالی گلوچ کرنا۔ کلم کھلا کرنا۔
اکاحہ۔ ہلاک کرنا۔
تکا و حہ۔ الرجلان۔ دو آدمیوں کو آپس
میں جنگ و جدال کرنا۔
کاحہ کالی گلوچ کرنا۔ کلم کھلا۔
الکاحہ و الیکہ۔ دامن کوہ۔ جہ۔ کیو حہ
و اکناحہ۔ کہا جاتا ہے۔ رجوع لائی
کو حہ۔ اس نے نیک کام کر کے اس



سے رجوع کر لیا۔

الْكُوْنُ وَالْكَاْنُ۔ جھونپڑی۔ اسی سے
کُوْنُ الصَّائِدُ ہے کھیت یا باغ
کی جھونپڑی جس کو کاشتکار کھیت کی
حفاظت کے لیے اور باغبان باغ کی
حفاظت کے لیے بناتے ہیں۔ ج۔ اَلْكُوْنُ
وَالْكُوْنُ وَالْكِيْفَانُ دُكُوْحَةٌ۔
نیلہ۔ کا۔ ج۔ اندھیری رات۔

الْكَاْفِيَّةُ۔ اہل سیاست کے نزدیک حاکم کا
معتد اور پائینٹ سیکرٹری (راز دان)
یہ اصل میں کتھا تھا بگڑ کر کافیکہ بن
گیا۔ ج۔ کُوْنُ اَرْخ۔ (دخیل)
كَادَ كَيْكُوْدُ كُوْدًا۔ کسی کو روکنا۔ کاد
بہ نفسیہ۔ جان دینا۔

كَادَ يَكَادُ كُوْدًا وَكَمَادًا وَكَمَادَةً۔
کام کرنے کے قریب ہونا اور نہ کرنا جیسے
كَادَ يَضْرِبُ۔ وہ مارنے ہی والا تھا۔
مگر مارا نہیں۔ یہ افعال مقدار سے متعلق
ہے۔ اس کی خبر کے ساتھ اُن بہت کم
آتا ہے۔ یہ کبھی ارادے کے معنی میں بھی
آتا ہے جیسے آكَادُ اُخْفِيْهَا۔ یعنی
اسے چھپانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ عَرَفَ
مَا يَكَادُ مِنْهُ۔ یعنی جو ارادہ کیا
جائے پہچان لیا۔ کاد کے بجائے
كَيْدٌ يَفْعَلُ كَذَا۔ بھی سنا گیا۔ کبھی
كَادَ زَائِدٌ آتا ہے اور کلام کا صلہ واقع
ہوتا ہے جیسے لَحْدٌ كَلْدٌ يَرَاهَا۔ اس
نے نہیں دیکھا۔ بمعنی لَحْدٌ يَرَاهَا۔
كَوْدُ۔ الشَّيْءُ كَسِيْ حَزِيْزٍ كُوْجِعُ كَرْنَا۔ اور ایک
ٹھہرنا۔

اَلْكُوْدُ اَلْكُوْدُ اَدَا۔ بڑھا ہونا اور
رعشہ میں مبتلا ہونا۔

اَلْكُوْدَةُ۔ مٹی وغیرہ کا تودہ۔
اَلْمَكَادَةُ۔ مہ۔ کہا جاتا ہے۔ اَلْمَهْمَمُ
لِيْ وَلَا مَكَادَةَ۔ نہ مجھے اس کا ارادہ ہے

اور نہ میں اس کے قریب ہوں۔

اَلْكُوْدُنُ وَالْكُوْدِيْنُ۔ غیر اصل کھوڑا۔ خچر۔
ٹٹو۔ باقی کُوْدُنُ کی جمع کُوْدَانُ۔
كَوْدُ۔ اَلْوَزَارُ۔ ازار کا گر کر ان کے اوپر
کے حصہ تک آہٹانا۔

اَلْكَادَةُ۔ دان کے اوپر کا بھرا ہوا گوشت۔
اَلْكَادِيْ۔ کیوڑہ۔

كَارَ يَكُوْرُ كُوْرًا۔ اَلْعِمَامَةُ وَنَحْوَهَا۔

علیٰ راسہ۔ سر پر پگڑی باندھنا۔
اَلارِضُ۔ زمین کھودنا۔ فی مشبہ۔

تیز چلنا۔ اَلْحَمَالُ اَلْكَارَةُ۔ مزدور
کا گھڑی اٹھانا۔ کیا رَا۔ اَلْفَرْسُ

ذُتْبَةُ۔ گھوڑے کا دوڑنے میں دم
اٹھانا۔

كَوْرُ۔ اَلْعِمَامَةُ۔ سر پر پگڑی باندھنا۔
كَوْرَةُ۔ بچھاڑنا۔ نیزہ مار کر گردانا۔

اَلْمَتَاعُ۔ سامان کا ایک دوسرے پر
رکھنا۔ اَللّٰهُ اَلْبَيْلُ عَلٰى اَلْهَارِ۔ خدا

کارات کو دن میں داخل کرنا۔
كَوْرَتِ الشَّمْسُ۔ سورج کی روشنی کو سمیٹ

لینا۔ بقیہ بعض روشنی کا کم کرنا اور ختم کر
دینا۔

اَلْكَارَةُ۔ اَلْعِلْيَةُ۔ کزو و سمجھنا ذلیل کرنا۔
تَكُوْسُ۔ گرنا۔ بچھڑنا۔ تیز چلنا۔

اَلْكَتَارُ اَلْكَتِيَارُ۔ پگڑی باندھنا۔ اَلْقُوْسُ
گھوڑے کا دوڑنے میں دم اٹھانا۔

اَلشَّيْءُ۔ ایک چیز کو دوسری چیز پر پٹکنا
۔ اَلرَّجُلُ۔ تیز چلنا۔ بچھڑنا۔ گرنا۔

کہا جاتا ہے۔ كُوْرَةُ فَانْكَتَسَ۔
اس نے اسے بچھاڑا اور وہ گر گیا۔

اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلُ۔ کسی مرد کا دوسرے
مرد کو گالی دینے کے لیے آمادہ ہونا۔

اَلْمُنْكَارُ اَلْمُنْكَارَةُ۔ تیز چلنا۔ اپنی
پیٹھ پر گھڑی اٹھانا۔

اَلْكَارُ۔ ایک قسم کا جہاز یا کشتی۔ ج۔

كَارَاتُ۔

اَلْكُوْسُ۔ مہ۔ عامہ کا پیچ۔ بہت جماعت۔
اونٹوں یا گالیوں کا ریوڑ۔ زیادتی۔ ج

اَلْكُوَارُ۔

اَلْكُوْسُ۔ طبیعت۔ عادت۔ جیسے لَهْ كُوْسُ
کُوْنُ۔ اس کی شریف طبیعت ہے۔

اَلْكُوْسُ۔ مٹی کی انگلیٹی۔ ج۔ اَلْكُوَارُ و
اَلْكُوْرُ کُوْرَانُ و کُوْرَانُ۔ بھڑوں

کا چھتا۔

اَلْمَكُوْسُ۔ اونٹ کا بجادہ مع سامان۔
اَلْكَارَةُ۔ مِّنَ التِّيَابِ۔ دھوبی کے

پٹروں کی گھڑی۔ غلہ اور کھانے کی ایک
مقررہ مقدار۔ ج۔ كَارَاتُ۔

اَلْكُوْدَةُ۔ ضلع۔ پرگنہ۔ ج۔ كُوْرُ۔
اَلْكُوَارَةُ و اَلْكُوَارَةُ و اَلْكُوَارَةُ۔

شہد کی کھینوں کا چھتا جو لمب یا مٹی کا بنا
ہوا ہو۔ موم سمیت شہد۔

اَلْكُوَارَةُ۔ عامہ۔ پگڑی۔ اَلْكُوَارَةُ۔
تیز دوڑ۔

اَلْمَكُوْرُ و اَلْمَكُوْرَةُ۔ پگڑی۔
اَلْمَكُوْرِيْ و اَلْمَكُوْرِيْ۔ کمینہ ریل۔

چوڑے جسم کا پستہ قد۔
كَارَ يَكُوْرُ كُوْرًا۔ کوزہ اور پیالہ سے

پینا۔ اَلشَّيْءُ۔ جمع کرنا۔
تَكُوْرُ۔ اَلْقَوْمُ۔ لوگوں کا جمع ہونا۔

اَلْكَتَارُ۔ کوزہ سے پانی پینا۔ اَلْمَاءُ۔
کوزہ سے پانی لینا۔

اَلْكُوْرُ۔ کوزہ۔ ج۔ اَلْكُوَارُ و اَلْكُوَارُ و
كَوْرَةُ۔ (دخیل)

مَكُوْسُ۔ اَلرَّاسُ۔ لمبے سرو والا۔
كَاسٌ يَكُوْسُ كُوْسًا۔ اَلْبَيْعِيُّ۔ ایک

ٹانگ کے زخمی ہونے کی وجہ سے اونٹ
کاتین ٹانگوں پر چلنا۔ فی السَّيْرِ۔

آہستہ چلنا۔ کہا جاتا ہے۔ فَلَاقٌ
يَكُوْسُ فِي السَّيْرِ۔ فلاں چلنے میں



دیر کرتا ہے۔ سخی راسیہ۔ سر کے
بال الٹ پڑنا۔ فی البیج۔ قیمت کم
کرنا۔ کہتے ہیں "لَا تَنْكُسْنِي يَا فُلَانٌ فِي
الْبَيْعِ" اسے فلاں میرے لیے قیمت
مت کم کر۔ الحَبَّةُ سناپ کا کنڈل
مارنا۔

کاسہ و کاسہ لکاسہ۔ پچھاڑنا۔
کوس۔ الشی علی راسیہ۔ کسی چیز کو
سر پالشنا۔
تکوس۔ الرجل۔ سرنگوں ہونا۔
تکادس۔ لحمہ۔ گوشت کا تہ نہ جمع
ہونا۔ العشب۔ گھاس کا گنجان اور
بہت ہونا۔

اكتناسه۔ عن حاجتہ۔ ضرورت سے
لکائس۔ کاس کا محض یعنی پیالہ۔
الکوس بم۔ سمندر کا تالیم سمندری ڈوبنے
کے قریب ہونا۔

الکوس۔ ڈھول۔ کڑی کا ایک مثلث
پیانہ جیسے بڑھی استعمال کرتے ہیں اسے
زاد یہ بھی کہتے ہیں۔ جو کوسات۔
(دخیل) لمعة کوسا۔ گھاس
کا گٹھا جس میں گھاس ایک دوسرے
پر لپٹی ہو۔ جو کوس۔ رمال
کوس۔ تہ نہ جہا ہوا ریت۔

الکوسی۔ من الخیل۔ جھوٹی ٹانگوں والا
گھوڑا۔ مؤنت کویسہ۔
الکاس۔ سناپ کے کنڈلی مارنے کی جگہ
الکوس۔ چکی کے پتھر درست کرنے کی
پھینی۔

کوسجہ و تکوسجہ۔ الرجل۔ ٹھوڑی
میں بال ہونا۔ رخساروں پر بالوں کا
نہ ہونا۔
الکوسجہ۔ وہ شخص جس کی ٹھوڑی پر
داڑھی ہو۔ اور رخساروں پر بال نہ ہوں
کم دانٹوں والا۔ آہستہ چلنے والا گھوڑا۔ یا

ٹو۔ جو کوسجہ۔ ایک قسم کی چھلی جس
کی ناک آہ کی طرح ہوتی ہے۔
کاش یکوش کوشا۔ بہت گھبرانا۔
کوع دس، کوعا۔ کلائی کا بڑا ہونا یا
ٹیڑھا اور مڑا ہوا ہونا۔ صفت مذکر
اکوع۔ صفت مؤنث کوعا۔ جو
کوع۔

کاع یکوع کوعا۔ الکلب۔ کتے کا
گرمی کی وجہ سے ہاتھوں کے جوڑوں پر
چلنا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے بند دست
پر چلنا۔

کوعا۔ بالسيف۔ تلوار مارنے سے
بند دست (کلائی) کو ٹیڑھا کر دینا۔
تکوعت۔ بیداء۔ ہاتھ کی کلائی کا ٹیڑھا
ہونا۔

الکاع و الکوع۔ انگوٹھے کی جانب کلائی
کا کنارہ۔ جو اکوع۔
الکوع مصدر۔ ہاتھ کی کلائی کی ہڈی میں
ٹیڑھا پن۔ پیر کے انگوٹھے کا دوسری
انگلیوں کی طرف بہت جھکاؤ۔

کاف یکوف کوفاً۔ الادیخہ۔ چرٹے
کے کناروں کو ملا کر سینا۔
کوف۔ الادیخہ۔ چرٹے کو ٹکڑے ٹکڑے
کرنا۔ الشی۔ کسی چیز کو الگ کرنا۔
الکاف۔ حرف کاف لکھنا۔ الرجل
کوفہ میں آنا۔

تکوف تکوفاً و کوفاناً علی غیر
القیاس۔ القوم۔ جمع ہونا۔
الوجل۔ کسی کا اہل کوفہ سے مشابہ یا
ان کی طرف منسوب ہونا۔

الکوفہ۔ عراق کا مشہور شہر۔ ریت کا گول
سرخ ٹیلہ۔
الکوفی۔ کوفہ سے منسوب اور اسی سے
بہ خط کوفی۔
الکوفیون۔ کوفہ کے قدیم نحوی اصحاب۔

الکوفیہ۔ کوفی کا مؤنث۔ سر پر پٹینے کا رومال
عوام اسے الکوفیہ کہتے ہیں۔


الکوفان و الکوفان و الکوفان و الکوفان
ریت کا گول تودہ۔ گول چیز۔ عزت و
شوکت۔ مشقت۔ زکل۔ بانس۔ کڑی
کا جھنڈا۔ کہتے ہیں۔ "ظلموا فی
الکوفان من امرہم" ان کا
معاملہ کرنا بڑا ہو گیا ہے۔ وہ صفت
کوفان من ذلک۔ وہ عزت
اور شان و شوکت میں ہیں۔ یہ بھی کہا
جاتا ہے "الناس فی کوفی منی
امرہم" لوگوں کے معاملہ میں
خط ملتا ہے۔

کوکب۔ الحدید۔ لوہے کا چمک اٹھنا۔
چم چم کرنا۔

الکوکب۔ ستارہ۔ تلوار۔ پانی۔ سخت گرمی۔
لوہے کی چمک دیک۔ لمبی نباتات۔ قوم
کا سردار اور شہسوار۔ میخ۔ قید خانہ۔
ہنسیار بند۔ قریب البلوغ لڑکا۔ باغ کی
کلی۔ فوج جو زہر بہتر کی وجہ سے چلتی نظر
آتی تھی۔ پہاڑ۔ آنکھ کا پھپھولا۔ چیز کا بڑا
حصہ۔ کوکب ایئر۔ کنویں کا
سوت جہاں سے پانی برآمد ہو۔ جو
کوکب۔ کہا جاتا ہے "ذہبوا
تحت کل کوکب" وہ سب بکھر گئے
اور منتشر ہو گئے۔ دیوم ذو کوکب۔
سمتیوں والا دن۔

الکوکبہ۔ ایک ستارہ۔ کلی۔ جماعت۔
الکوکب۔ آنکھ کے پھولے والا۔
کوکب کوکب۔ الرجل۔ تیز چلنے میں
جھومنا۔ پستہ قد کا دوڑنا۔

الکوکا د الکواکیہ۔ پستہ قد۔
الکوکی۔ جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔
کیکڑا۔
تکول۔ القوم۔ لوگوں کا اکٹھا ہونا۔



وَأَنْكَالٌ إِنْكَيَالًا - انقوم
عَلَيْهِ . مارپیٹ اور گالی گلوچ کے
لیے کسی پر پل پڑنا -
تَكَادُلُ - الرَّجُلُ - کوتاہی کرنا باز
رہنا -

الْكَوْلَانُ وَ الْكَوْلَانُ - بردی نام کی
گھاس - واحد كَوْلَانَةٌ -

الْأَكُولُ - پہاڑ کی مانند اونچی زمین - ج
آکادُلُ -

كَوْمٌ تَكْوِيمًا - الثَّوَابُ - مٹی کو
جمع کر کے اس کے ڈھیر تیار کرنا -

الْمَتَاعُ - سامان کو تہہ بہ تہہ جمانا -
ثِيَابُهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ - کپڑوں کو
ایک کپڑے میں باندھنا -

اِكْتَامٌ اِكْتِيَامًا - الرَّجُلُ - پاؤں
کی انگلیوں کے کناروں پر بیٹھنا -

اَلْكَوْمُ - اونٹوں کا گلدہ - ج - اَكْوَامٌ -
ٹیلے کی طرح بلند مقام - ج - كَيْمَانٌ -

اَلْكَوْمَةُ وَ الْكَوْمَةُ - مٹی وغیرہ
کا اونچا ڈھیر - ج - كَوْمٌ وَ

اَكْوَامٌ -
اَلْكَوْمُ - بلند - بلند کومان والا اونٹ -

مَوْنٌ كَوْمًا - ج - كَوْمٌ -
كَانَ يَكُونُ كَوْنًا دَكْنُوْنَةً -

- الشَّيْءُ - واقع ہونا پایا جانا -
ہونا - جب یہ فعل ناقص کی حیثیت

سے ہو تو مبتدا خبر پر داخل ہوتا
ہے - مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب

دیتا ہے - ایسے موقع پر یہ خبر کو
مبتدا کے لیے ثابت کرتا ہے - مبتدا

کان کا اسم کہلایا جاتا ہے - جیسے
كَانَ زَيْدًا قَائِمًا - زید کھڑا

تھا -
کبھی یہ فعل تام کی حیثیت سے بھی
آتا ہے - جیسے فَقَالَ اللَّهُ لِيَكُنْ

نُورٌ فَكَانَ نُورٌ - اللہ تعالیٰ
نے فرمایا نور ہو جائے تو نور پیدا
ہو گیا - یہ موجود ہونے اور ثابت
ہونے کے لیے بھی آتا ہے - جیسے
كَانَ اللَّهُ ذَا شَيْءٍ مَعَهُ - اللہ
موجود تھا جبکہ کوئی چیز اس کے ساتھ
نہیں تھی -

اور حصر کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
إِلَى مَيْسَرَةٍ -

یہ وقع کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے
مَا بَشَاءَ اللَّهُ لَكَ -

یہ کیلبنی کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے
مَا كَانَ كُفْرُكَ أَنْ تُبَيِّنُوا
شَجْرَهَا - تمہارے لیے مناسب

نہیں ہے کہ تم اس کے درخت کو اکاؤ
استقبال کے معنوں میں - جیسے

يُخَافُونَ كَانَتْ شَرُّهُ
مُسْتَطْبِئًا - وہ اس دن سے ڈرتے

ہیں جس کی برائی اُتی ہوئی ہوگی -
منقطع زمانہ ماضی کے معنوں میں جیسے

كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ
رَهْطٍ شَرِيعَةٍ نَوْرُهُ تَحِيَّ

زمانہ حال کے لیے جیسے كُنْتُمْ خَيْرَ
أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ - تم

بہترین قوم ہو جو لوگوں کے لیے نکالی
گئی ہے -

کبھی یہ دوام و استمرار کے مفہوم بھی
ادا کرتا ہے جیسے كَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا - اللہ ہمیشہ بخشنے والا مہربان
ہے - کہا جاتا ہے - صَاسًا إِلَى

كَانَ - یعنی وہ مر گیا - اسی کے مطابق
نظمی اور جمع میں "صَاسًا إِلَى كَانَا"

"صَارُوا إِلَى كَانُوا" بولا جائے گا
"كُنْتُ اَلْكُوفَةُ" میں کوفہ میں

تھا - مَنَازِلٌ اَتَقَفْتُ كَانُ
لَحْدٌ يَكْنُهَا أَحَدٌ - گھر خالی ہو
گئے گویا کہ وہاں کوئی نہیں تھا - وَ
كُنَّا هُمْ - بمعنی كُنَّا لَهُمْ -
ایک محاورہ یہ بھی ہے - دَخَلَ
الْأَمْرُ فِي خَيْرٍ كَانُ - یہ معاملہ

گذر گیا اور ختم ہو گیا -
كَانَ يَكُونُ كَوْنًا وَ كَيْفَانًا - عَلَيَّ
فُلَانٍ - کسی کا ضامن ہونا - ذمہ دار

بننا -
كَوْنٌ تَكْوِينًا - الشَّيْءُ - کسی چیز کو
پیدا کرنا - ایجاد کرنا -

تَكْوَنُ - پیدا ہونا - ایجاد ہونا - متحرک
ہونا -

اِكْتَانٌ اِكْتِيَانًا - بِفُلَانٍ وَ
عَلَيْهِ - ذمہ دار ہونا - ضامن بننا -

اِسْتَنَكَاتٌ اِسْتِنَاكَاتٌ - بِفُلَانٍ -
عاجزی کرنا - مطیع ہونا -

اَلْكُونُ - مصر - کائنات - عالم وجود -
اَلْكُونِيٌّ - کون کی جانب منسوب -

اَلْكُونِيٌّ - عمر رسیدہ - بڑی عمر والا -
اَلْكِيَانُ - مصر - فطرت - طبیعت -

اَلِكِيَانَةُ - کفالت - ضمانت -
اَلتَّكْوِينُ - مصر - ناپید کو عدم سے

وجود میں لانا - سَقَطُ التَّكْوِينِ -
تورات کی پہلی کتاب جو کتاب پیدائش

کے نام سے مشہور ہے -
اَلْكَائِنُ - فنا - ہونے والا واقعہ -

اَلْكَائِنَةُ - كَائِنٌ كَامُونٌ - حادثہ -
واقعہ - ج - كَائِنَاتٌ دَكْوَائِنٌ -

اَلْكَائِنَاتُ - موجودات -
اَلْكُنْتِي وَ اَلْكُنْتِي - بڑی عمر والا -

یہ لفظ "كُنْتُ" فِي شَيْءٍ كَذَا
وَ كَذَا - کو مخفف کر کے بنایا گیا

ہے - یہ بھی کہا جاتا ہے - اَصْبَحْتُ

کُنْتِيَا۔ میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں۔ ج۔ کُنْتِيُونُ وَكُنْتِيُونُ۔
 ”كُنْتِيْنِي“ میں نون و قابہ ہے تاکہ واحد معظم کی ناء کا ضمہ ظاہر ہو جائے۔ جس طرح ”هَمَوْنِي“ میں فتح ظاہر کرنے کے لیے نون لگایا جاتا ہے۔ الْمَسْكَانُ جائے وقوع۔ مکان۔ جگہ۔ ج۔ اَمَّا كُنْ وَ اَمَّا كُنْ وَ اَمَّا كُنْ۔ آخر جمع نادر ہے۔
 الْمَكَانَةُ۔ مقام۔ جگہ۔ مرتبہ۔ ج۔ مَكَانَاتُ۔
 الْمَكِيَّتُ۔ مرتبہ والا۔ کہتے ہیں ”فُلَانٌ مَكِيٌّ عِنْدَ فُلَانٍ“ فلاں شخص فلاں کے نزدیک عزت و مرتبہ والا ہے۔ کہا جاتا ہے ”مَكُونُ فِيهِ“ یعنی مَوْجُودُ فِيهِ۔
 كَوَّةٌ دس، گوہا۔ حیران ہونا۔
 كَاةٌ يَكُوُّهُ كُوْهُادُنْ منہ سونگھ کر بو معلوم کرنا۔
 كَوَّةٌ النَّارُ۔ آگ بھڑکانا۔
 تَكْوَةٌ۔ عَلَيْهِ الْأَمْرُ۔ کسی کام کا وسیع و منتشر ہونا۔
 كَوِيٌّ۔ فِي دَارِهِ كَوِيٌّ۔ روشن دان کھونا۔
 تَكْوِيٌّ تَكْوِيًّا۔ الرَّجُلُ۔ تنگ جگہ میں داخل ہو کر سٹپنا۔
 الْمَكْوُودُ الْمَكْوَةُ وَ الْمَكْوَةُ۔ روشن دان ج۔ كَوَاءٌ دَكْوِيٌّ وَ كَوَاتٌ وَ كَوَاتٌ۔
 كَوِيٌّ۔ النَّهْرُ۔ دریا کے نالے۔
 كَوِيٌّ يَكُوِيُّ كَبًّا۔ فُلَانًا۔ لوہے وغیرہ سے داغ دینا۔
 كَوِيٌّ۔ الْحَقْرُ فُلَانًا۔ پھوکا ڈسنا ڈنک مارنا۔ کہا جاتا ہے ”كَوَانِي“

بَعِيْنُهُ۔ اس نے مجھے تیز نظر سے دیکھا۔
 اَكْوِيٌّ اَكْوَاءُ۔ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچانا۔
 كَادِيٌّ مَكَادًا۔ الرَّجُلُ۔ ایک دوسرے کو گالی دینا۔
 اَكْتَوِيٌّ۔ داغ لگنا۔ الرَّجُلُ۔ اپنے آپ کو داغ دینا۔ اپنی ذات کی بیجا تعریف کرنا۔
 اِسْتَكْوِيٌّ۔ فُلَانًا۔ کسی سے داغ لگانے کو کہنا۔ الرَّجُلُ۔ کسی کے دلخے جانے کا وقت قریب ہونا۔
 اَلْكِيَّةُ۔ کوئی کا اسم مرہ۔ داغ لگانے کی جگہ۔
 اَلْكُوْءُ۔ بروزن قَعَالٌ۔ اسم مبالغہ بزرگان۔ بہت گالی بکتے والا۔
 اَلْمَكْوَاةُ۔ داغ دینے کا لوبا۔ استری کرنے کا لوبا۔ ج۔ مَكَاوُ۔
 اَلْمَكْوَاةُ۔ وَ اَلْمَكْوَاةُ۔ بکریوں پر نشان لگانے کا آلہ۔
 كِيٌّ۔ یہ حرف تعلیل ہے۔ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس سے پہلے اُن کے مقدر ہونے کی وجہ سے نصب دیتا ہے جیسے جَاءَ كِيٌّ يَسْأَلُ۔ (تاکہ پوچھے)
 یہ مَا استفہام پر بھی داخل ہوتا ہے۔ جیسے كِيْسَمَ جَدَّتْ۔ تم کیوں آئے۔ اس صورت میں یہ حرف جر ہوگا۔ وقف کی صورت میں اس کے بعد ہٹا لایا جاتا ہے۔ جیسے كِيْسَمَ جَسَاكُمُ يَمَهُ کہا جاتا ہے۔ یہ مَا مصدر پر بھی داخل ہوتا ہے۔ جیسے ”يُدْرِي الْفَتَى كَيْمَا يَضُرُّ وَ يَنْفَعُ“۔ یہ اُن مصدر پر جو بباد داخل ہوتا ہے جیسے جَعَلْتُكَ

كِيٌّ تَكْوِمَتِي میں تمہارے پاس آیا تاکہ تم میری عزت کرو۔ عام طور پر اس کا استعمال لام کے بعد ہوتا ہے۔ جیسے جَعَلْتُ يَكِيٌّ تَكْوِمَتِي۔
 كَاةٌ يَكُوُّهُ كِيْسًا۔ عَيْنُ الْأَمْرِ۔ کنرہ کشی کرنا۔
 اَلْكَاةُ وَ اَلْكِيَّةُ وَ اَلْكَاةُ وَ اَلْكِيَّةُ۔ بزدل۔
 كِيَّتٌ۔ الْوَعَاءُ بَرْتَن کو بھرنے والا۔ الْحِجَارُ۔ سامان تیار کرنا اور آسان کرنا۔
 كِيَّتٌ وَ كِيَّتٌ۔ کبھی کبھی وَ كِيَّتٌ۔ آخر حرف کی زیر کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے ان سے کسی بات کی طرف کنایہ اور اشارہ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”قَالَ فُلَانٌ كِيَّتٌ وَ كِيَّتٌ“ فلاں نے ایسا ایسا کہا۔ واؤ کے بغیر كِيَّتٌ كِيَّتٌ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہر حال میں اس کا مکر استعمال ضروری ہے۔
 كَاَحٌ يَكِيْحُهُ كِيْحًا۔ السَّيْفُ فِيهِ۔ تلوار کا اثر کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مَا كَاَحٌ فِيهِ السَّيْفُ“ تلوار نے اس پر اثر نہیں کیا۔
 اَكَاَحَدًا كَاَحَةً۔ ہلاک کرنا۔
 اَلْكِيْحُ۔ غَلِيظٌ۔ سخت (مذکر و مؤنث)
 كِيْحُهُ اَكِيْحُهُ۔ سخت۔ کھودنا۔ جیسے کہا جاتا ہے۔ يَوْمٌ اَيَوْمٌ۔
 اَلْكِيْحُ۔ سختی۔ موٹاپا۔
 كَاَدَا يَكِيْدُهُ كِيْدًا۔ مکر و فریب کرنا۔ فریب سکھانا۔ جنگ کرنا۔ بُرَا ارادہ کرنا۔
 اَلزُّنْدُ۔ جھپٹا کا آگ نکالنا۔ گاد۔
 بَقْلَانٌ کسی سے جیلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے فُلَانٌ يَكِيْدُ اَمْرًا مَا اَدْرِي مَا هُوَ فلاں کسی کام کی تدبیر کر رہا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ یعنی وہ کسی کو ورغلا رہا ہے اور فریب دے



رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ”کَبُغُوا
الْأَمْوَالَ دُنَىٰ كَادُهَا“۔ جس کام
کا وہ ارادہ کر رہے تھے اسے پورا کر
لیا۔ کَادَ بِتَفْصِيهِ۔ جان دے دی
۔ الشَّيْءَ تَيَّارًا كَرْنَا۔ الرَّجُلَ رَقَّ
کرنا۔
كَأَيْدٍ مُّكَائِدَةٍ۔ مکر و فریب کرنا۔
تَمَكَّيْدًا۔ الرَّجُلَانِ۔ ایک دوسرے کے
ساتھ مکر کرنا۔
اِكْتَادَهُ اِكْتِيَادًا۔ کسی سے مکر و فریب
کرنا۔
اَلْكَيْدُ مِمَّ جِدَّ۔ مکر۔ خباثت۔ لڑائی۔
قے۔ ج۔ کِیَاد۔ کہا جاتا ہے۔ ”عَزَا
فَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا“۔ وہ نہیں لڑ سکا۔
فَلَا كَيْدًا۔ اَوْ لَهْمًا۔ نہ لڑائی کرتا
ہوں نہ اس کا ارادہ کرتا ہوں۔ یہ لفظ
وہ شخص استعمال کرتا ہے جسے کسی
نا پسندیدہ چیز پر آمادہ کیا جائے۔
(اَلْكَيْدُ بہت مکر کرنے والا۔
اَلْمَكِيدَةُ۔ کاد کا اسم ہے۔ دھوکا۔
خباثت۔ مکر۔ ج۔ مَكَايِدُ۔
كَادَ رِيكِيْرُ كِيَارًا۔ اَلْفَرَسُ۔ گھوڑے
کا دوڑنے میں دُم اٹھانا۔
اَكَاَرُ۔ عَلَيْهِ يَضْرِبُ۔ مارنے کی طرف
متوجہ ہونا۔
تَمَكَّا يَرُ۔ ایک دوسرے کو مارنا۔
اَلْكِيَرُ۔ لڑائی جھڑپ۔ ج۔ اَلْكِيَارُ وَ كِيَرَةٌ۔
اَلْكِيَرُ۔ وہ گھوڑا جو دوڑنے میں دُم اٹھائے
کَا سَ بَكِيْسُ كَيْسًا وَ كَيْسًا سَةً۔
اَلغَلَامُ۔ عقلمند اور ذہین ہونا۔
فَلَانًا۔ کسی شخص سے عقلمندی میں
غالب آنا۔
كَيْسَةً تَكْيِيْسًا۔ عقل مند و ذہین
بنانا۔
كَأَيْسَةً مُّكَأَيْسَةً۔ عقلمندی میں مقابلہ کرنا

۔ فِي الْبَيْعِ فَرْخَتِ فِي مَقَابِلِ كَرْنَا۔
اَكَا سَ اَكَا سَةً وَ اَكْيَسَ اَكْيَا سًا۔
عقلمند اور ذہین اولاد پیدا کرنا۔
تَمَكِّيْسُ۔ عقلمندی ظاہر کرنا۔ بتکلف
عقلمند بننا۔
اَلْمَكْيِسُ مِمَّ۔ عقلمندی۔ ذہانت۔ سمجھ
بخش۔ جماعت۔ کاموں میں دوراندیشی
اور سنجیدگی۔
اَلْكِيَا سَةً مِمَّ۔ سلیقہ۔ مفید بات
معلوم کرنے کی قابلیت۔
اَلْكِيْسُ۔ بھیلی۔ بٹوہ۔ ج۔ اَكْيَا سَ وَ
كَيْسَةً۔
اَلْمَكْيِسُ سَلِيْقَةً مِّنْ مَّفِيْدَاتِ ذَهَبٍ وَ
بَا دَبٍ۔ ج۔ اَكْيَا سَ وَ كَيْسِي۔
مُونث كَيْسَةً۔ ج۔ كِيَا سَ۔
اَلْمَكْيِسُ۔ سمجھ دار۔
كَيْسَانُ۔ اَلْفَلَامُ کے بغیر یہ لفظ عذرو
بیوفانی کے مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ کہا
جاتا ہے۔ ”رَكِبَ فُلَانًا كَيْسَانًا“۔
فُلَانٌ پر غداری اور بیوفانی سوار ہو گئی
ہے۔
اَلْكَيْسُو۔ اسم تفضیل۔ زیادہ عقلمند۔
مُونث كَيْسِي وَ كُوْسِي۔ ج۔ كَيْسُ۔
اَلْمَكْيَا سَ۔ مِّنْ اَلنِّسَاءِ۔ وہ عورت جو
ذہین بچوں کو جنمے۔ ج۔ مَكَايِسُ۔
كَأَصَ بَكِيْسُ كَيْصًا وَ كِيُوَصًا وَ
كَيْصَانًا۔ کسی چیز سے عاجز ہونا۔
اَلطَّعَامُ۔ تنہا کھانا۔ مِّنْ اَلطَّعَامِ
وَ الشَّوَابِ۔ بہت کھانا پینا۔ الرَّجُلُ
تِيْزُ جَلْنًا۔ کہا جاتا ہے۔ ”مَوَّ بَكِيْسُ“
وہ تیز چلتے ہوئے گذرا۔ دَلِصْنَا
عِنْدَهُ مَا يَشْتَنُّ۔ ہم نے جس قدر
چاہا۔ اس کے پاس کھایا۔
كَأَيْصَ مُّكَأَيْصَةً۔ اَلْأَمْوَالُ اَلْعَمَلُ
کسی کام کی مشق کرنا۔

اَلْكَيْصُ مِمَّ۔ بہت بھلی۔ بہت کجوس۔
گٹھے بدن کا پستہ قد۔
اَلْكَيْصُ۔ بخلی گٹھے ہوئے بدن کا پستہ قد
سرکش۔ رَجُلٌ كَيْصٌ وَ كَيْصِي وَ
كَيْصِي وَ كَيْصِي۔ تنہا اترنے والا۔
تنہا خور۔ خود غرض۔
اَلْكَيْصُ وَ اَلْكَيْصُ۔ مِّنْ اَلرِّجَالِ۔
قوی اعصاب مرد۔
كَأَعٍ يَكْنِيْعُ كَيْعًا وَ كَيْعُوْعَةً۔ عِنْدَهُ کسی
نے بزدل بننا اور اس سے ڈرنا صفت
گَا جَ وَ كَا ئِعٌ۔ ج۔ گَا عَةً۔
كَأَفَ بَكِيْفٌ كَيْفًا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو
کاٹنا۔
كَيْفٌ۔ الشَّيْءُ۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ مقررہ
حالت یا کیفیت پیدا کرنا۔
تَمَكْيِفٌ۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ کوئی کیفیت
طاری ہونا۔
اِنْكَافٌ اِنْكِیَا فًا۔ الشَّيْءُ۔ چیز کا کٹنا۔
كَيْفٌ۔ اس اسم کے آخر میں ہمیشہ فتح
درجہ ہوتا ہے۔ اس کا عام استعمال
استفہام کے لیے ہے جیسے كَيْفَ زَيْدٌ
زید کیسا ہے۔ یہ کبھی شرط کے معنوں
میں مَّا کے ساتھ یا اس کے بغیر مستعمل
ہوتا ہے جیسے كَيْفَ مَا تَصْنَعُ
اَصْنَعُ۔ كَيْفَ تَصْنَعُ اَصْنَعُ۔
كَيْفَ کو اسم معرب کی طرح بھی بعض
اوقات استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے
اسی سوال کے جواب میں کہا جاتا ہے۔
كَيْفَ لِيْ فُلَانٌ؟ كُلُّ اَلْكَيْفِ
دباجوں اس موقع پر اصلی حالت کا لحاظ
رکھتے ہوئے فتح بھی لایا جاتا ہے۔
كَيْفِيَّةٌ۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کی صفت اور
حالت۔ ج۔ کیفیات۔
اَلْكَيْفَةُ۔ کپڑے کا وہ ٹکڑا جس سے کُرتے
کے دامن کے اگلے حصے میں بیوند لگائیں۔



جہ کیف۔

الکینکۃ۔ اندا۔ جہ۔ الکیائی۔ تصغیر
کینکۃ۔ دکیئکۃ۔

کال یکیل کیل وکیل وکیل وکیل
وکیل۔ القدر و غیرہ۔ گیوں
وغیرہ کی مقدار کو کسی پیمانہ سے ناپنا
یہ کبھی دو مفعولوں کی طرف متعدی
ہوتا ہے۔ جیسے "یکلث زبدا"
الطعام۔ کبھی مفعول اول پر لام
داخل ہوتا ہے۔ جیسے "کلث لزدید
الطعام۔

کال۔ الدراہم۔ درہم کا وزن
کرنا۔ الشیء بالشیء۔ اندازہ
کرنا۔ کہا جاتا ہے "هذا طعام
لا یکیلنی"۔ اس خوراک کا پیمانہ
میرے لیے کافی نہیں ہے۔
کال یکیل کیل۔ الزند۔ چقراق
سے آگ نہ نکلنا۔

کیل۔ القدر۔ گیوں ناپنا۔ الرجل۔
بزول ہونا۔

کایکۃ مکیکۃ۔ دوسروں کی بات
کے مانند کہنا یا اسی طرح کرنا۔ گالی بڑھ
چڑھ کر دینا۔ کہا جاتا ہے "کایت
فلاناً" میں نے اس کے لیے پیمائش
کی اور اس نے میرے لیے پیمائش
کی۔ دونوں کو مکیکۃ کہا جائے
گا۔ کایل الفردس الفردس فی
الجوری۔ ایک گھوڑے نے
دوسرے گھوڑے کا دوڑ میں مقابلہ کیا
کایتناہم صاعداً بصاعداً۔ ہم
نے ان کو پورا پورا بدلا دیا۔
تکیل۔ الرجل۔ میدان جنگ میں
آخری صف میں کھڑا ہونا۔

تکایل۔ الرجلان۔ گالی دینے اور کینہ
جوئی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔
ایک دوسرے کے لیے ناپنا۔

اکتال اکتیا۔ منہ و علیہ۔
اپنے لیے ناپنا۔

انکال۔ ایک ٹیڑھا سا آلہ ہے حوصلہ
گرنے کے کام آتا ہے (دخیل)
الکیل مہ۔ ناپنے کا آلہ۔ چنگاری جو چقراق
سے گرے۔ جہ۔ الکیا۔

الکینکۃ۔ کال کا اسم مرہ۔ ناپنے کا
بزن۔ صرائے شام میں دو مد کا پیمانہ۔
جہ۔ کینکۃ۔ کسوت ہے
احشفاً سوء کینکۃ۔ کیا
بری کھجور بھی اور بری نول بھی۔
(دونوں چیزیں جمع کرتے ہو)

الکینکۃ۔ کال کا اسم اور اسم نوع۔
الکیا لہ۔ ناپنے کا پیشہ۔ ناپنے کی اجرت۔
الکیا۔ وہ شخص جو ناپنے کا پیشہ
اختیار کرے۔

الکیول۔ میدان جنگ کی آخری صف
اونچی زمین۔ بزول و الکیل۔
چنگاری جو چقراق سے جھڑے۔

المکیل والمکیکۃ۔ جہ۔ مکایل۔
والمکیا۔ جہ۔ مکاییل۔ جس
سے ناپا جائے۔

المکیل والمکیول۔ ناپا ہوا۔
الکیجیاء والکیجیاء۔ ایک اکیر
جس کے بارے میں خیال تھا کہ اس
سے سونابن جاتا ہے۔ علم
الکیجیاء والکیجیاء متقدمین
کے نزدیک، وہ علم ہے جس میں اس کا
بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح ایک معدنی
چیز دوسرے کی طرف بالخصوص سونے

میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی اکیر
کے ذریعہ جسے حجر الفلاسہ کہا جاتا
ہے یا اس کے ذریعہ ایسی دو معلوم
کی جائے جو تمام امراض کے لیے اکیری
دوا ہو۔

متاخرین کے نزدیک وہ علم جس میں
مختلف اجسام کے خواص و مزاج
تخلیل و ترکیب کے ذریعہ معلوم کیے
جائیں۔ اس کی صفت نسبتی کیجی
وکیجیائی ہے اور جمع کیجیو
وکیجیوون ہے۔

کان یکیل کینا۔ پفلان۔ مطیع
ہونا۔ عاجزی کرنا۔

آکانہ اکانہ۔ اللہ۔ خدا کا کسی کو عاجز
کرنا۔ مطیع و فرمانبردار بنانا۔

اکتال اکتیا۔ رنجیدہ ہونا اور رنج
کو پوشیدہ کرنا۔

استکات۔ اس کی توضیح کون کے
مادہ میں ہو چکی ہے۔

المکینۃ۔ سیر کا پھل ضمانت و کفالت۔
المکینۃ۔ ذیل کرنے والی سمتی۔

حالت۔ کہا جاتا ہے "بات فلان
یکینکۃ سوء"۔ اس نے بری حالت
میں رات گزاری۔

الکیینا۔ کونین۔ وہ دوا جو امریکا کے
ایک درخت کی چھال سے بنائی جاتی
ہے۔ اور بخار کے دور کرنے کے لیے
استعمال کی جاتی ہے (لفظ دخیل)
کاکہ یکینہ کیرھا۔ فلاناً منہ سونگھ
کر ہو معلوم کرنا۔

المکیت۔ وہ شخص جو اپنی تدبیر و
حیلہ سے عاجز آچکا ہو اور لاچار
ہو گیا ہو۔



ل

یہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ جار جارم۔ غیر عامل۔
(جار) یہ اسم ظاہر اور یاے تشکیم کے
ساتھ مکسور اور ضمیر اور مستثنات کے
شروع میں مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے
لَزِيدٍ زید کے لیے۔ لَكَ تیرے
لیے۔ يَا لِلّٰہ اے خدا مدد فرما۔

یہ کئی معنوں میں آتا ہے۔
(۱) اختصاص جیسے اَلْجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِ
جنت مومن کے لیے خاص ہے۔

(۲) استحقاق جیسے اَلْعِزَّةُ لِلّٰہ
عزت کا مستحق اللہ ہی ہے۔

(۳) ملک۔ جیسے لِلّٰہ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور
زمین میں ہے ان کا مالک اللہ ہی ہے۔

(۴) تبلیغ جیسے قُلْتُ لَهُ میں نے اس
سے کہہ دیا۔

(۵) تقدیر جیسے مَا اَشَدَّ حُبَّ زَيْدٍ
لِعَمْرُو۔ زید کو عمرو سے کتنی شدید
محبت ہے۔

(۶) قسم جیسے لِلّٰہ لَا فَعَلَنَّ خُدا کی
قسم میں اس کو ضرور کر دوں گا۔

(۷) ضرورت جیسے وَلِدَ الْاِنْسَانُ
لِحَيٰوَتِهِ اَبَدِيَّةً اِنْسَان ہمیشہ کی
زندگی کے لیے پیدا ہوا ہے۔

(۸) معنی علی والی وافی و عند و بعد بھی آتا
ہے۔ نیز کبھی زائد بھی ہوتا ہے جیسے قُلْتُ
لَزَيْدٍ میں نے زید کو مارا۔

(۹) تعلیم کے لیے جیسے جُنْتُ لِيَتَعَلَّمَنِي
میں تیرے پاس آیا تاکہ تو مجھے تعلیم دے۔

(۱۰) تاکید نفی کے لیے۔ بدیں صورت کان
منفی اس سے پہلے آتا ہے جیسے مَا
كَانَ زَيْدٌ لِيَكْرُمَكَ زید تیری

تعظیم کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔
(لام جارم) جیسے لِيُعِيْزَكُمُ اللّٰہ۔ خدا
فیصلہ کرے۔

(لام غیر عامل) یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے
اور وہ لام ابتدا ہے۔ جیسے لَزَيْدٍ قَابِلٌ
زید کھڑا ہے وَ اِنْ زَيْدًا الْقَائِلُ زید
ضرور کھڑا ہے۔

اور لام جواب میں آتا ہے لَوْدُلَاوَلَمْ
کے جیسے لَوْعَدْتُمْ لَعُدْنَا۔ اگر تم
واپس ہوتے تو ہم بھی واپس ہوتے۔

لَوْكَ زَيْدٌ لَهْلَكْنَا اگر زید نہ ہوتا تو ہم
ہلاک ہو جاتے۔ وَاللّٰہ لَزَيْدٍ كَرِيْمٌ
بخدا زید فیاض ہے۔ اور لام زائدہ جیسے

اَرَاكَ تَشَابَهْتَنِيْ میں تجھے اپنا کافی نے
دلائل خیاں کرتا ہوں۔ اور ذَلِيلٌ ذِ
تِلْدٌ میں بھی یہی لام غیر عامل ہے۔

لَا تَمِيْنٌ طریقہ پر استعمال ہوتا ہے۔
(۱) نافیہ۔ اور یہ بھی چار طرح کا ہے۔ الف

معنی نفی جیسے لَا رَجُلٌ فِي السَّكَا
گھر میں کوئی آدمی نہیں رہا، معنی نفی
جیسے لَا رَجُلٌ قَائِمًا اَدْمَى كَهْرَبِش

(ج) لَا نَافِيہ برائے عطف جیسے جَاءَ
زَيْدٌ لَا عَمْرُو زید آیا نہ کہ عمرو۔

(د) حرف جواب نعم کا نفیض۔ جیسے
اَقَاهُ زَيْدٌ کیا زید کھڑا ہے۔ کے

جواب میں کہا جائے "لا" نہیں۔
(۲) لَدَنِی۔ جیسے لَا تَفْعَلْ مت کر۔

(۳) تقویت معنی کے لیے زائد جیسے مَا
مَنْعَكَ اَنْ لَا تَقُوْمَ معنی مامنعہ

اَنْ تَقُوْمَ۔
لَا تَ، یہ حرف نفی کیسے کے معنی

دیتا ہے اور اس کا صرف ایک معمول

ہی ذکر کیا جاتا ہے اور عموماً اس کا اسم
محذوف ہوتا ہے۔ خبر مذکور ہوتی ہے۔
جیسے مَذَّذَ الْبَغَاةَ وَ لَاتَ سَاعَةً
مُتَدَّةً یعنی باغی بے وقت نادم ہوئے۔

اَلْمَلَكُوتُ۔ سیدھا۔ اللہ زود و لا جوڑ
لَا ظِلَّ دَن، لَا ظِلَّ۔ اصرار کرنا۔ لَدَظ
عَلَى فَلَانٍ۔ سختی کرنا۔ لَا طَسِيْهِمْ

تیرا نہ۔ لَا ط فَلَانٌ فی درد کسی
طرف التفات کے بغیر تیر بھاگنا۔ فَلَانَا

کسی کو حجت تک وہ غائب نہ ہو جائے
دیکھتے رہنا۔ بِالْعَصَى۔ لائق سے مانا

لَا ظِلَّ دَن، لَا ظِلَّ۔ اداس کرنا دھمکانا
مقابلہ کرنا۔ سختی کرنا۔

لَا فُت دَن، لَا فَا۔ الطعام اچھے طریق
سے کھانا۔

اَلَاكَةُ اَلَاكَةُ۔ اِلٰی فَلَانٍ۔ پیغام
پہنچانا۔ اَلَكْنِيْ اِلٰی فَلَانٍ۔ میرا

پیغام اس کو پہنچا دو۔ د اَصْل میں
اَلَاكَةُ ہے۔

اَسْتَلَاكَ۔ لَکَ۔ پیغام لے جانا۔
اَلْمَلَاكَةُ۔ اَلْمَلَاكَةُ۔ پیغام

اَلْمَلَاكَةُ وَالْمَلَكُ۔ پیغام رساں فرشتہ
(ج) مَلَاكُتُکَ وَمَلَاكُتُکَ۔ اَمَلَاکُ

لَا لَکَ لَکَ لَکَ۔ اَلْمَنْجَمُ اَوَالْبَرْقِ۔
ستارہ یا بجلی کا چمکنا۔ اُگ کا بھرنے۔

لَا لَکَ الشُّوْبُ ذَنْبٌ۔ بیل کا دم
ہلانا۔ لَا لَکَ النِّوَالُ حُ۔ بین

کرنے والی عورتوں کا ہاتھوں کو
دور پر نیچے کرنا۔ لَا لَکَ اَلْمَسْمُ اَنْسُوْبَانَا

تِلَاکَ لَکَ۔ معنی لَا لَکَ۔ وجہ۔ جبرہ
کا دھمکنا۔
اَلْمُوْلُو۔ موتی۔ واحد (لَوْلُوۃ) ج۔

لَا بِي - الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ - موتی کے رنگ کا - اللَّيْلَةُ - موتی جڑنے کا پیشہ -

لَا لَهَ إِلَّا اللَّهُ - بہت زیادہ خوشی - چراغ کی روشنی - وَاللَّهُ أَكْبَرُ - واللہ اعظم - موتی فروزش -

لَا تُمِ رَتْ، لَا مَاءَ وَلَا مَ تِلْمًا - الرجل کینہ کنہا - السُّهْمُ - تیر پر پر رگہا - الجرح - زخم بند کرنا - باندھنا

لَا تُمِ رَتْ، لَا مَاءَ وَلَا مَ تِلْمًا - الرجل الِامَّا - الشَّيْءُ - درست کرنا - التَّحَاكُّمُ - باندھنا - الِامُّ الرَّجُلُ - کینوں کی طبیعت با بطبع بیوں والا ہونا -

لَا تُمِ رَتْ، لَا مَاءَ وَلَا مَ تِلْمًا - الرجل لَوُؤْمًا - غمیل ہونا - ذیل ہونا صفت (لَوُؤْمًا) - ج. لَوُؤْمًا - لَوُؤْمًا مَلَا عَمَلًا - الشَّيْءُ - درست کرنا - جمع کرنا - موافق ہونا - لَوُؤْمًا

بَيْنَ الْقَوْمِ - قوم میں صلح کرنا - قَلَامًا - قَلَامًا - الشَّيْءُ الْفَاسِدُ - درست ہونا - قَلَامًا لَوُؤْمًا زَرْه - پھینا

الِنَامُ الْقَابِلُ - درست ہونا - آپس میں چپٹ جانا - اکٹھا ہونا - زخم کا انکڑانا اور اچھا ہونا -

اسْتَلَامَ اسْتَلَامًا - زہر پہننا لَبِيمُ بَاب - کینوں میں سادی کرنا - حجر اسود چومنا -

الِامُّ - مص - جمع لامۃ - زہر شخص ہر سخت چیز - شَیْءٌ لَوُؤْمًا - مجتمع چیز - مہم لَوُؤْمًا - پر لکھا ہوا تیر -

الْمُتَمِّمُ - ج. اَلَامُ - وَلِامًا وَالْمَلْمَ - مَلْمٌ - مانتہ - الملمہ - لوگوں میں اتفاق - تلوار - شہد - الملمۃ - تین سے دس تک لوگوں کی جماعت - ج. لَمَات

الْأَمَّة - زہر - ج. لَوُؤْمًا - لَوُؤْمًا - کاشت کاری کے اوزار - نفیس چیز جس کی خوب موتی کی وجہ سے اس میں بخل کیا جائے - دوسروں کے کام میں نقل اتارنے والا -

الْمُسِيمُ - کینہ - دنی الاصل - بخیل - بخیوس طبیعت کا رذیل - ج. لَوُؤْمًا وَلَوُؤْمًا الْمَلَامُ وَالْمَلَامُ - کینوں کی عذر خواہی کرنے والا - بحالت نڈا کہتے ہیں یا مَلَامُ یعنی یا لَبِيمُ

الْمَلَامَانِ وَالْمَلَامَانِ - دنی بطبع - الملام - زہر پوش - المَلِيمُ - کینہ لیم لوگوں سے میل جول رکھنے والا -

لَا يَلَا لَیْلًا - دیر کرنا - رُکنا - لَیْلًا لَیْلًا - مصیبت و محنت میں پڑنا - التَّامِ السَّاءُ - دیر کرنا - ننگ گذران اور مفلس ہونا -

الْأَلَا وَالْأَلَا - اللہ واو - سختی تکلیف رنج - الالای - ڈھال - جھکی یل - مَوْنَتُ لَوُؤْمًا - ج. الالام -

لَبَّ (ن) لَبَّ - بالمكان - اقامت کرنا - الدابة - جانور کے سینہ پر ننگ باندھنا - اللوزۃ - بادام کی گری نکالنا - الرجل - کسی کے سینہ پر مارنا -

لَبَّ (س) لَبَّ وَلَبَّ وَلَبَّ وَلَبَّ - عقل مند ہونا - لَبَّ (ف) س) لَبَّ وَلَبَّ - عقلمند ہونا - لَبَّ تَلْبِيبًا - الحَت - دانہ کا گودے والا ہونا - فلاناً - گریبان پکڑ کر کھینچنا -

فی الامم - تردد کرنا - لَبَّ - بالمكان - اقامت کرنا - علی الامم لازم ہونا - الدابة - جانور کے سینہ پر ننگ باندھنا - السَّوَجُ - زین کا ننگ بنانا - لہ الشَّيْءُ - پیش آنا -

لَبَّ (ف) س) لَبَّ وَلَبَّ - عقلمند ہونا - لَبَّ تَلْبِيبًا - الحَت - دانہ کا گودے والا ہونا - فلاناً - گریبان پکڑ کر کھینچنا -

فی الامم - تردد کرنا - لَبَّ - بالمكان - اقامت کرنا - علی الامم لازم ہونا - الدابة - جانور کے سینہ پر ننگ باندھنا - السَّوَجُ - زین کا ننگ بنانا - لہ الشَّيْءُ - پیش آنا -

لَبَّ (ف) س) لَبَّ وَلَبَّ - عقلمند ہونا - لَبَّ تَلْبِيبًا - الحَت - دانہ کا گودے والا ہونا - فلاناً - گریبان پکڑ کر کھینچنا -

فی الامم - تردد کرنا - لَبَّ - بالمكان - اقامت کرنا - علی الامم لازم ہونا - الدابة - جانور کے سینہ پر ننگ باندھنا - السَّوَجُ - زین کا ننگ بنانا - لہ الشَّيْءُ - پیش آنا -

دَاوِلَانِ - طلب داری - فلاں کا گھر میرے گم کے سامنے ہے - تَلَبَّبَ - لَلْقَتَال - لَوُؤْمًا کے لیے مَر کنا -

الْوَجَلَان - ہر ایک کا دوسرے کے گریبان کو پکڑ کر کھینچنا - اسْتَلَبَّ - زَيْدًا - عقل کو آزمانا -

الْلَبَّ - قریبی مہربان - مَوْنَتُ لَبَّ - ج. لَبَاب - اُمُّ لَبَّ - مہربان ماں -

الْلَبَّ - ہر چیز کا خاص - خاص عقل تیز فہمی - دل - زہر - ج. اَلْبَابُ د البَابُ وَالْبَابُ - بادام و اخروٹ وغیرہ کی گری - ج. لَبُوب -

الْمَبَّة - لَبَّ کا اسم مرۃ - سینہ کا بالائی حصہ جہاں ہار پہنتے ہیں -

الْلَبَّ - سینہ میں ہار پہننے کا مقام - سینہ کا اوپر کا حصہ - باریک ریت - گھوڑے وغیرہ کے سینہ پر باندھنے کا ننگ - ج. -

الباب - کہتے ہیں "فلان فی لبب دخی" فلاں خوشحال ہے - اللب - دل -

الباب - تھوڑی گھاس - کہتے ہیں لباب و لباب - کوئی حرج نہیں -

الباب - ہر چیز کا خاص - برزیدہ - اللبابۃ - لَوُؤْمًا کے وقت کپڑوں کے اوپر پہننے کا لباس -

البیب - عقل مند - ج. الباء - مَوْنَتُ لَبَّ - ج. لَبَّات و لَبَّاتُ بَنَاتُ لَبَّ - دل کی رگیں - "اَنَا اُحِبُّكَ مِنْ بَنَاتِ اَلْبَبِ" میں تجھ سے تیرے دل سے محبت کرتا ہوں - ج. اَلْبَبُ

اللبب - تصغیر - اَلْبَبُ -

اللبب - تصغیر - اَلْبَبُ -

کا طریقہ۔

خلط صاف کرنے والا۔

۱۔ طلیس - رات ۔

ابیک بخش کلامی کرنا۔ نشتگو میں عطی کرنا۔

ایسی - ایسی - مہم پر - پ

اللبان سینه یا دو یوں پتہ

دالنا۔ فدنا۔ سب کچھ سے لینا۔
لنفع (رس) لنفعنا۔ بھوکا ہونا۔ صفت
رکتان، موشن انشعی۔ رجل لنفع
ولا تح ولا تح ولا تح۔ عقل مند۔
چالاک آدمی۔ ج لنفع۔

لنفعہ (رف) لنفعنا۔ آلودہ کرنا۔ انشعی
بھارنا۔

لنفع (رضق) لنفعنا۔ ڈالنا بیدار
مکا مارنا۔

لنفع (رضق) لنفعنا۔ مکا مار کر بھانا۔
اللمنعة۔ جھوٹی قسم۔

لنعمہ۔ دن، کتنا۔ مارنا۔ ننھنے پر نیزہ
مارنا۔ تیر بھیننا۔

النعم۔ زخم۔
التي واليت وللت منث الذي

ج اللاتي وللات واللواتي واللوات
واللوات واللوات واللوات واللوات

تشبه اللتان واللتان واللتان
بجاء رنغ واللتی بجاء رنغ دبر۔

اللتی واللتی۔ تصغير التي بصورت
تشبه اللتان واللتان بصورت

جمع اللتان واللتان۔ کہتے ہیں
”وقع في اللتان والتي“ یعنی وہ مختلف

مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا۔ بعد اللتان
والتي صار كذا“ بعد جھکے وفساد

کے ایسا ہوا۔
لنن (ن) لنن۔ کسی کے ذمہ ڈالنا۔

لنن۔ المطر۔ چند دنوں تک بارش کا
برسنا۔ علیہ۔ اصرار کرنا۔

لنن۔ نمی۔ تری۔
لنن (ن) لنن۔ الکلب۔ کتے کا منہ

ڈالنا۔
لنن۔ درخت سے بہنے والی چیز۔

لنن (رض) لنن۔ المتاع۔ سامان کو
ترتیب سے رکھنا۔ اوپر تلے جمانا۔

سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھتے۔
لنن (ن) لنن۔ الشئ۔ پینا، باریک کرنا۔
باصدنا۔ تنگ کرنا۔ الشئ۔ شئ
میں پانی یا بھی ملانا۔ الماء۔ انشعی
وغیرہ۔ پانی کا کپڑوں کو تر کرنا۔

صفت (ر) لنن۔
لنن۔ فلان بقدن۔ چمنا۔ اللطائف
پرندہ کا اپنے سر کو بازوؤں میں

چھپانا۔
اللوات واللوات۔ عربوں کے ایک بٹ

کانام۔
اللوات۔ کھاروی۔ برا کھانا۔

اللوات۔ درخت کی چھان جو باریک کی
جائے۔

لنن (ن) لنن۔ فدنا فی صدرہ۔ دھکا دینا
لنن (ن) لنن۔ اس کی ماں نے

اس کو جنا۔ بجھنا۔ پھرنانا۔ لنن
البتہ بعینہ۔ ٹھکی باندھ کر دیکھنا۔

گھورنا۔ انشعی کم کرنا۔
اللتی۔ اپنی جگہ پر رہنے والا۔

لنن (ن) لنن۔ لبنا ولبنا۔ بہ چکنا۔
فیہ۔ ثابت رہنا۔ فی منحہ الناقہ

اوٹنی کے گلے میں بھالا مارنا۔ (ولنن)
السنج علی الفرس گھوڑے پر زین

کسنا۔
الکتب۔ علیہ الامر۔ کسی پر کوئی کام واجب

کرنا۔ کسی کے ذمہ ڈالنا۔
تلا تلب۔ القوم۔ قوم کا باہم ملنا۔

بار بار۔ ایک دوسرے کے نیزہ مارنا۔
التلب۔ الثوب۔ کپڑا پہننا۔

اللاتب۔ (ن) چپکنے والا۔ ثابت۔
المتلب۔ گھر میں رہنے والا۔

الملا تلب۔ پرانے بوسیدہ کپڑے۔
لنن (ن) لنن۔ کنکری مار کر ماریا

جسم کو زخمی کرنا۔ ہا بھڑہ کسی پر نگاہ

اللبان۔ دودھ۔ اللبنان۔ منوہر گندہ
ایک قسم کا گوند جو دھوئی کے کام میں

آتا ہے۔
اللبانة۔ حاجت۔ ج لبانات

ولبان۔
لبنان۔ شام کے عداوت میں ایک بہار

جس کی چوٹی ہمیشہ برف سے ڈھکی
رہتی ہے۔

اللابن (ن) بہت دودھ دینے والا۔
دودھ پلانے والا۔ مونث لابیئة

ج لابنات وکوابن۔ اللوابن
دودھ پھن۔

اللبون واللبونة۔ دودھ والی۔ ج
لبان ولبن ولبن ولبان

گم لب غمک تھامی بکریوں میں کتنی
دودھ والی ہیں

اللبین۔ دودھ سے پرورش پایا ہوا۔
مونث لابیئة۔

اللبنی۔ ایک درخت جس سے شہد کی حرج
دودھ نکلتا ہے۔

اللبان والملا بن۔ اینٹیں بنانے والے۔
التلبین والتلبنة۔ بھوسی۔ دودھ

شہد سے تیار کیا ہوا حریرہ۔
الملبن۔ دودھ صاف کرنے کی چھپنی۔

دودھ روہنے کا برتن۔ اینٹ بنانے
کا سانچہ۔

الملبون۔ دودھ سے پرورش کیا ہوا۔
دودھ کے نشہ والا۔

الملبنة۔ چھپ۔
اللبوة واللبوة۔ شیرنی۔

لبی یلبی لبیا۔ من الطعام۔ بہت
کھانا کھانا۔

لبی تلبیة۔ الرجل۔ بیکار کا جواب دینا
اور تلبیک کسنا۔ ”بیتهم ملتبیة“

ان میں ایسا اتفاق ہے کہ ایک دوسرے



لَشْدَا - جبر نے دلی اور نہ کوئی کرنے والی
جماعت -

لَشْمَ (رض) لَشْمًا فلانا آہستہ آہستہ مارنا -
آہستہ چپکنا -

اللَّشْعَةُ - دانتوں کی جڑوں سے ہونٹ
کا دھوا حصہ -

الْأَلَشْع - ہکلا - مونٹ لَشْعَاء - ج
لَشْع -

لَشْع (س) لَشْعًا و لَشْعًا - ہکلا ہونا
صفت (لَشْع) مونٹ لَشْعَاء -

ج لَشْع - اللَشْعَةُ - ہکلا پن -
اللَشْعَةُ - منہ -

لَشَق (س) لَشَقًا - ایوم - دن کا کم ہوا
والا اور نناک ہونا - المسافر کیچ میں

پڑنا - نیابہ - کپڑوں کا تر ہونا - الطائر
پرندہ کے پردوں کا تر ہونا - صفت

لَشَق (لَشَق) - لَشَقًا - فاسد کرنا نہا کرنا -
لَشَق - اشیء تر کرنا - اَللَشَق وَ لَشَق

تر ہونا -
اللَشَق - نری - نمی - کچر - گارا -

اللَشَق - چپکنے والی مٹی -
لَشَقُ المطر - بارش کا چند دن تک برسا

الرجل - کمزور ہونا - علی فدن - اصرار
کرنا - ه عن كذا - منع کرنا - روکنا -

فی التراب - مٹی میں بٹانا - لَشَقًا
الْبَعِير - اونٹ کو تھکانا - كل مہ كلام

صاف نہ کہنا - لَشَقُوا بِنَا - ہمیں
تھوڑا سا آرام کرنے دو - رَوْنَا لَشَقًا

فی الامر - ترد کرنا - دیر لگانا - بالمكان
اقامت کرنا - تَلَشَقْنَا فِي التُّرَابِ

خاک میں لیٹنا - اَلْغَيْمُ وَ السَّحَابُ
ابرو بادل کا آنا جانا -

اللَّشَقَاتُ وَ اللَّشَاتُ وَ اللَّشَاتَاتُ
و المَلَشَاتُ - ہر معاملے میں دیر کرنے والا -

لَشْمَ (رض) لَشْمًا - الفہ - ناک پر مکارنا
الْحِجَابُ خَفَّ الْبَعِير - پتھر کا اونٹ

کے پاؤں کو زخمی کرنا - خون آلود کرنا -
الْبَعِيرُ الْعَبَارَةُ بِخَفِّهِ اُونٹ کا

پتھر کو ٹھوکر سے ٹوڑ دینا -
لَشْمَ وَ لَشْمَ وَ لَشْمَ وَ لَشْمَ

و اَللَشْمَ - الرجل - منہ یا ناک پر کپڑا
پیٹنا -

لَا لَشْمَ - بوسہ لینا تَلَا شَمًا - ایک
دوسرے کا بوسہ لینا -

اللَشْم - مص - ناک اور اس کا ارد گرد -
اللا شَمَ - لَشْم - اللَشْمَةُ - بوسہ

لینے کی سببت -
اللا شَمَ - کپڑا جو ناک اور اس کے ارد گرد

لینا جائے - نقاب - ج لَشْم
لَشَق (لَشَق) - لَشَقًا - فاسد کرنا نہا کرنا -

لَشَق - اشیء تر کرنا - اَللَشَق وَ لَشَق
تر ہونا -

اللَشَق - نری - نمی - کچر - گارا -
اللَشَق - چپکنے والی مٹی -

لَشَقُ المطر - بارش کا چند دن تک برسا
الرجل - کمزور ہونا - علی فدن - اصرار

کرنا - ه عن كذا - منع کرنا - روکنا -
فی التراب - مٹی میں بٹانا - لَشَقًا

الْبَعِير - اونٹ کو تھکانا - كل مہ كلام
صاف نہ کہنا - لَشَقُوا بِنَا - ہمیں

تھوڑا سا آرام کرنے دو - رَوْنَا لَشَقًا
فی الامر - ترد کرنا - دیر لگانا - بالمكان

اقامت کرنا - تَلَشَقْنَا فِي التُّرَابِ
خاک میں لیٹنا - اَلْغَيْمُ وَ السَّحَابُ

ابرو بادل کا آنا جانا -
اللَّشَقَاتُ وَ اللَّشَاتُ وَ اللَّشَاتَاتُ

و المَلَشَاتُ - ہر معاملے میں دیر کرنے والا -

لَجَجَ وَ اَلْبَجَجَ - القوم - قوم کا پانی گہرے
حصے میں داخل ہونا - اَلْجَبَّتِ الْإِبِلُ

اونٹ کا آواز نکانا اور بڑبڑانا -
لَا جَج - خفہ - مقابل سے تھکنا جھگڑنے

میں مدد مست کرنا -
تَلَجَجَ وَ اَلْتَجَجَ - متاع فلان کسی کے

سامان پر دعویٰ کرنا -
بَسْتَلَجَجَ يَمِينِهِ - یہ گمان کر کے کہ

صادق ہے قسم کا کفارہ ادا نہ کرنا اور
اصرار کرنا -

الْتَجَجَ - البحر - سمندر کا میجان و طوفان میں
آنا - متلاطم ہونا - الارض بالسراب - موج

جیسا ہونا - الامر والموت - معاملہ یا موج
کا عظیم ہونا - الظلم - اندھیرے کا

گھٹا ٹوپ ہونا -
الْتَجَّتِ الْأَرْضُ - زمین کا کثیر اور لمبی

نباتات والی ہونا - الاصوات - آوازیں
کا مخلوط ہونا -

الْدَج - پانی کا بڑا حصہ - بڑی جماعت -
داوی کا کنارہ - تلوار - پہاڑ میں سخت جگہ

فَرَسٌ أَذْهَمُ لَجَجَ - بہت کا لٹھوڑا -
الْمُجَّةُ - پانی کا بڑا حصہ - پانی کی برائی -

بڑی جماعت - چاندی - ج لَجَجَ وَ لَجَجَ
و لَجَجَ -

الْمُجَجِي - لَجَج کی جانب منسوب بحر لَجَجِي
صوفانی اور بے پایاں سمندر -

الْمُجَّةُ - مخلوط آوازیں -
الْدَجَجُ وَ الدَّجُجُ وَ الدَّجُجَةُ

و الدَّجَّةُ وَ المَلْجَجُ - بڑا
جھگڑاؤ -

الْمُلْتَجَّةُ - بہت سیاہ آنکھ - بہت سرسبز
زمین -

لَجَأْتُ لَجَاءً وَ لَجُوءً وَ لَجِي (س) لَجَاءً
وَ اَلْتَجَّأُ اِلَى الْحَصْنِ او غیرہ -

المطی - سواری کا قہقہہ لرست ہونا -

الْقَتَبُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ - پالان
کا جانور کی پیٹھ کو زخمی کرنا۔ اَلْجَمْلُ
اونٹ کا اڑیل ہونا۔
الْمَلْحُ - مہ۔ قریبی قرابت۔ اللّاحُ -
تنگ جگہ۔

الْمِلْحَاحُ - جانور کی پیٹھ کو زخمی کرنے والا۔
پالان۔ بہت الماح سے مانگنے والا۔
لگاتار برسنے والا بادل۔

لَحَبٌ (ن) لَحْبًا - الطریق - راستہ کو واضح
کرنا۔ الشیء - اثر کرنا۔ بقدان الارض -
زمین پر بچھاڑنا۔ ہ بال سفر - تلوار سے

مارنا۔ اللحم - گوشت کو لمبا فی میں کاٹنا۔
اللحم عن العظم - گوشت کو ہڈی پر سے
چھلنا۔ الرجل - سیدھا چلنا یا تیز چلنا۔
(لَحْوًا) - الطریق - راستہ کا واضح ہونا۔

لَحَبٌ (س) لَحْبًا - الرجل - بڑھاپے کا
نسی کو لاغر و دُبل کرنا۔ لحم زبد - لاغر
ہونا۔

لَحَبٌ - الشیء - اثر کرنا۔ نشان چھوڑنا۔
مکروے مکروے کرنا۔ فلاناً - ذیل کرنا۔
ہ باسیف - تلوار سے مارنا۔

التَّحَبُّ - الطریق - راستہ چلنا۔
اللَّحَبُ - مہ۔ (و اللّاحِبُ) صاف اور
کھلا راستہ۔ فراخ سڑک۔

اللَّحِيبُ - دہلی اونٹنی۔ المِلْحَبُ
گالی دینے والا۔ بد زبان۔ کاسٹے یا
چھلنے کا اوزار۔ بقیع زبان۔

الْمَلْحُوبُ - مہ۔ واضح سڑک۔ لاغر
آدمی۔

لَحَتٌ (ن) لَحْتًا - العصا - لاٹھی کو
چھیلنا۔ فلاناً بالعصا - لاٹھی سے مارنا
الرجل - کسی سے عیب کچھ لے لینا۔

اللَّحْتُ - مہ۔ خالص۔ اللّحاة - تارکی
ہوئی چھال۔
لَحَجَةٌ (ن) لَحَجًا - مارنا۔ بعینہ - نظر

لگانا۔
لَحَجٌ (س) لَحَجًا - السیف و نحوہ تلوار کا
میان میں چٹ کر نہ نکلنا۔ بالمكان جگہ
کو لازم پکڑنا۔ الشیء تنگ ہونا۔ اللّحی
کچ ہونا۔ صفت (الحج)

لَحَجٌ - علیہ الخیر - غلط خبر دینا۔ الحجۃ الیہ -
مجبور کرنا۔
التَّحَجُّج - الیہ - مائل ہونا۔ فلاناً الیہ - مائل
کرنا۔ مجبور کرنا۔

تَلَحَّجٌ - الامر علی فلان - ضمیر کے خلاف
ظاہر کرنا۔

اِسْتَلَحَجَ - الباب - دروازہ کا بند ہونا۔
اللَّحَجُ - مہ۔ آنکھ کا گڑھا۔ اللّحَجُ -
آنکھ کا گڑھا۔ گھر کا گوشہ۔ اونٹ

کا پالان۔ پہاڑ کا ابھرا ہوا حصہ۔ وادی
کا کنارہ۔ ج الحاج۔ اللّحج - آنکھ
کا چرک۔

المَلْحَجُ والمَلْتَحَجُ - جائے پناہ۔ ج
مَلَّاحِجٌ -
المَلَّاحِجُ - تنگ جگہیں۔ یا حاجتیں۔
المَلَّاحِجُ - پہاڑوں میں تنگ راستے۔

لَحْوَجٌ - خبر غلط بتانا۔
لَحْدٌ (ن) لَحْدًا - المیت - میت کو
دفن کرنا۔ اللّحد - کھودنا۔ للمیت

میت کے لیے کھودنا۔ السہم عن
الہدف - نیز کا نشانہ خطا کرنا۔ الی فلان
مائل ہونا۔ فی الدین - مذہب سے پھر

جانا۔ ملحد ہونا۔ علی فی شہادۃ - گندگار
ہونا۔

اَلْحَدُّ اَلْحَادَا - المیت - مردے کو دفن
کرنا۔ اللّحد - کھودنا۔ للمیت - بغلی قبر
کھودنا۔ عن الدین - دین سے پھرنا۔ دین

میں طعن کرنا۔ جھگڑا کرنا۔ احکام خداوندی
کو ترک کرنا۔ ظلم کی طرف مائل ہونا اور
اور خدا کی ذات میں شک لانا۔

فی الحرم بے حرمتی کرنا۔ السہم الہدف
نیز کا نشانہ کے ایک پہلو میں لگنا۔
بہ - بدنام کرنا۔ عیب لگانا۔
لَا حَدَّ مَلَا حَدًا - صاحبۃ - ہر ایک کا
دوسرے سے کچی اختیار کرنا۔

اَلتَّحَدُّ - عن الدین - دین سے پھرنا۔
الی کذا - مائل ہونا۔ الی فلان - پناہ
لینا۔

اَلْحَدُّ وَاللَّحْدُ - بغلی قبر۔ قبر۔ ج
اَلْحَادُ وَالْحُوْدُ -
اَللَّحَادُ - کفر۔ اللّحُوْدُ - مائل ہونے

والا۔
اَللَّاحِدُ - نا۔ گورکن۔ المُلْحِدُ - نا۔
کافر۔ ج۔ مَلَّاحِدَةٌ وَمُلْحِدُونَ
دہریہ۔ نیچری۔

اَلْمُلْحَدُ وَالْمَلْحُوْدُ - بغلی قبر۔ قبر۔
اَلْمِلْحَادَةُ - دین میں بہت طعن کرنے
والا۔

اَلْمُلْتَحِدُ - جائے پناہ۔
لَحْزٌ (س) لَحْزًا - تجل و تجوس ہونا
صفت لَحْزٌ وَلَحْزٌ۔

لَحْزٌ (ن) لَحْزًا - لَحْزًا - اصرار کرنا۔
تَلَحَّزٌ - تجل ہونا۔ ترش چیز کے لیے منہ
میں پانی بھرنا۔ لڑنے یا سفر کرنے

کے لیے دامن اٹھانا۔ عنہ - پیچھے
ہٹنا۔
تَلَّحَّزَ - القوم - گفتگو کرنے میں متبادلہ
کرنا۔

اَلْمَلَّحْزُ - تنگ جگہ۔ ج۔ مَلَّاحِزٌ
لَحْسٌ (ن) لَحْسًا - الدُّوْدُ اَلصُّوْفُ
اُون کو کیرا لگنا۔ الجُرَادُ اَلْخَفَرُ - ہڈی

کا سبزی کو چاٹ جانا۔
لَحْسٌ (س) لَحْسًا وَلَحْسَةً وَ
لُحْسَةً وَمُلْحَسًا - اَلْقَصْعَةُ
پیالے کو زبان یا انگلیوں سے چاٹنا



پونچھنا۔

لَحْسَه - الشئ - چٹانا۔

الْحَس - الماشية - مویشی کو غھوڑا سا چرانا۔ الْحَسَتِ الْأَرْضُ - زمین کا شروع سبزہ لگانا۔

التَّحَس - منه حَقَّة - کسی سے حق لے لینا۔ الْحَسَم - سبزہ کی ابتدائی روئیدگی۔ سَنَةُ لَحْسَةٍ - سخت سال۔ "مَا لَكَ عِنْدِي لَحْسَه" - تمہارے بے میرے پاس کوئی چیز نہیں۔

الْحَوْص - مٹھائی کا حریص۔

الْلَّاحُوص - منحوس - (واللَّاحُوص و

الملحس و الملحس) حریص۔

الملحس - بہادر۔

اللَّحَّاس - بہت چاٹنے والا۔

اللَّحَّاسَة - مونث۔ اللَّحَّاسُ شیری

اللَّحْسُم - وادی کا تنگ حصہ۔ ج

لَحَّاسِم۔

لَحَصَ (ف) لَحْصًا - فی الامر کسی کام

میں لگ جانا۔ خبر فدان - خوب اچھی

طرح معلوم کرنا اور غھوڑا غھوڑا بیان کرنا

لَحَصَ - النجر - خبر تفصیل سے بیان کرنا۔

فی کذا - سختی کرنا۔ ہ عن کذا - روکنا

بھڑانا۔ الكتاب - پختہ کرنا۔

التَّحَص - سخت ہونا۔ التَّحَصَّتِ

الْإِبْرَةُ - سوئی کا ناکہ بند ہونا۔ ہ

الی کذا - مجبور کرنا۔ البیضتہ و نحو ہا۔

اٹدے کو غھوڑا غھوڑا اپنا۔ ہ عن کذا

روکنا۔ رُسست کرنا۔

لَحَاصٍ - بھیت۔ بد قسمتی۔ جیرانی۔

اللَّحَص - اوپر کے بیوٹے کی سلوٹ

اللَّحْصَان - دوڑ۔ سرعت۔

اللحیص - تنگ۔ المَلْحَص - پناہ کی جگہ۔

لَحَطَه (ف) لَحْطًا - پانی چھڑکنا۔ زینت دینا۔

التَّحَط - غضب ناک ہونا۔

لَحَظَ (ف) لَحْظًا وَلَحْظَانًا - فدا نا والی

فدان بالعیں - گوشہ چشم سے دیکھنا۔

انتظار کرنا۔ لَحْظًا وَلَحْظًا تَلَحُّظًا

البیجر اونٹ کے داغ لگانا۔

لَا حَظَّ لِحَاظًا وَمَلَا حَظَّةً - انتظار

کرنا۔ ایک دوسرے کو دیکھنا۔

تَلَحَّظَ - الشئ - چیز کا تنگ ہونا۔

تَلَا حَظَّتِ الْأَشْيَاءُ - ایک دوسرے

کے مشابہ ہونا۔

الْمَلْحَظ - ہم۔ آنکھ کا باطن اندرونی حصہ

ج - لحاظ و الحاظ۔

الْحَاظُ وَالْحَاظُ - کنپٹی کے رخ میں

آنکھ کا گوشہ۔ آنکھ کے نیچے کا نشان

ج - لَحْظٌ - الحاظ - گھر کا صحن۔

تیر کے اوپر کے پر۔

الْمَلْحَظ - سخت دیکھنے والا۔ التَّلَحُّظُ

ہم۔ آنکھ کے نیچے کا داغ۔ الَّلَا حَظَّة

آنکھ کو آویختہ۔

الْمَلْحَظَة - لَحْظٌ کا اسم مرہ۔ ج لَحْظَاتٌ -

الدَّحْوَظ - تنگ۔ الدَّحِيط - شبیہ

نظیر۔ المَلْحَظ - دیکھنا۔ دیکھنے

کی جگہ۔ ج - مَلَا حِظ -

لَحَفَه (ف) لَحْفًا - لحاف وغیرہ سے

ڈھکنا۔ ہ الثوب - کپڑا پہنانا۔ ہ

جمع کفہ۔ مکا مارنا۔ ہ سہما۔ تیر مارنا

النَّارَ حَطَبٌ - آگ میں لکڑی ڈالنا۔

لحف الشئ - چاٹنا۔ عَنْهَ اللحم - گوشت

اتارنا۔ لُحْفَ الْقَمَر - چاند کا آخری راتوں

میں ہونا۔ کتنے ہیں لَحْفَتِي فَضْلُ

لِحَاظِيہ - اُس نے مجھ کو زاید عطیہ دیا۔

الْحَقَف - ازارہ۔ ازار کو تیکڑے زمین

پر گھسیٹنا۔

الْحَفَّ - السائل - اصرار سے مانگنا۔ ہ

الثوب - کپڑا پہنانا۔ کسی کے لیے

لحاف بنانا۔ ضیفہ - سخت سردی میں

اپنا بستر اور لحاف مہمان کو دینا۔ شاربہ

مونچہ کو بہت نیچے سے کاٹنا۔ بہ نقصان

پہنچانا۔ انظرناخن جڑ سے اکھڑنا۔

الرجل - دامن کوہ میں چلنا۔

لَا حَفَه - مدد کرنا۔ سا بھر ہنا۔

تَلَحَّفَ وَالتَّحَف - اپنے لیے لحاف

بنانا۔ لحاف اور ہنا۔

الْمَلْحَف - دامن کوہ۔ المِلْحَفَة - پسینے

کا طریقہ۔ لیٹے ہوئے کی حالت۔

الْمِلْحَف - ج لَحْفٌ وَ الْمِلْحَفُ وَ الْمِلْحَفَة

ج مَلَا حِف - اوڑھنے کا کپڑا۔ نہ بند

بستر کی چادر۔ کبیل۔ لحاف۔

لَحَقَّ (س) لَحَقًا وَلَحَاقًا - فدا نا و فدان

آ ملنا۔ آپہنچنا۔ الی قوم نذا۔ چٹنا۔

لَحَقَّ (س) لَحُوقًا - القرس گھوڑے

کا لاغر ہونا۔ الثمن فدا نا قیمت لازم

ہونا۔

لَا حَقَه - پیچھے جانا۔ الْحَقَه - جا ملنا۔

ہ بفدان۔ ملا دینا۔ ایک دوسرے

کے پیچھے جانا۔ ایک دوسرے کو جا

ملنا۔ سواریوں کا ایک دوسرے کے

پیچھے چلنا۔

التَّحَقَّ بِهِ - ملنا چٹنا۔

اسْتَلَحَقَه - اپنے خاندان کی طرف

منسوب کرنا۔ وادی کی کھلی ہوئی زمین

میں کھینٹی کرنا۔

الْمَلْحَق - پیسے کے ساتھ ملنے والی چیز۔

دوسری بار کا پھل۔ وادی کی نکلی ہوئی

زمین۔ ج - الْحَاق -

الْمَلْحَق - زائد۔ تتمہ۔ ضمیمہ۔ اندکس۔

الْمَلْحَق - کمان کا خلاف

الْمَلْحَق - دوسری بار کا پھل۔

ابو لاحت - باز -
اللاحقة - پہلے پھل کے بعد کا ہیں۔

ج - لَوَاجِحُ -
اللوحيق - ایک شکاری پرندہ -
الملحاق - نیز تیر پھینکنے والی کمان -
نیز روا و نثی جس سے ادٹ آگے
نہ بڑھ سکیں۔

لَحَاكَ (ن) لَحَاكَ وَلَحَاكَ وَتَلَحَّاهُ
الشيء بالشيء - چھٹانا - تَلَاكَ الشيء
ایک دوسرے میں داخل ہونا -
لَحَاكَ العصبى - بچہ کے منہ میں دوا
ٹپکانا۔

لَوَجَّكَتْ - فقار ظہرہ - پیٹھ کے منکوں
کا ایک دوسرے میں پھنسا ہوا ہونا
لَحَاكَ (س) لَحَاكَ - العسل - شہد چاٹنا۔
اللحكة واللحاء - ریت میں رہنے
والی ایک قسم کی جھپکی -
الملاحك - تنکیاں - تنگ جلیں -
تنگ درے۔

لَحَلَجَ وَتَلَحَّجَ - القوم - اپنے مقام پر
قائم رہنا - دور جانا -
اللحلاج - تنگ جگہ - الملحج - قوم
کا بڑا سردار۔

لَحَمَ (ن) لَحْمًا - الامر مضبوط کرنا -
انقص العظم - قصائی کا ڈی سے
گوشت اتارنا - نقصان پہنچانا -
تکلیف دینا۔

لَحْمَةٌ (ن) لَحْمًا - گوشت کھانا -
لَحْمَ (س) لَحْمًا - بالمكان - لازم ہو کے
رہنا - الصقر ونحوہ - گوشت کی خواہش
رکھنا۔

لَحْمَ (س) لَحْمًا وَلَحْمًا (ن) لَحْمًا
بہت گوشت والا جسم رکھنا - گوشت
کا مشتاق ہونا -
لَحْمَ لَحْمًا - قتل کیا جاتا صفت (لحم)

لَحَمَ - الحمل - رسی مضبوط بننا - الشيء
باشی - ملانا - شادی کے تعلق سے
ملانا۔

لَحَمَ - الثوب - کپڑا بننا - الشعر - شعر
نظم کرنا - الزرع - کھیتی میں دیر پڑنا
بین القوم شرًا - قوم کے درمیان نفاق
ڈلوانا - ہ بصرہ - نیز نظری سے دیکھنا
الحم الرجل - غلبین کرنا - فلانًا الارض -

زمین پر گرا دینا - بچاڑ دینا - ه عرض
فدان - گالی دینے کا موقع - الاجمات
العدابة - جانور کا چلتے چلتے ارجحانا
الحم بالمكان - اقامت کرنا - الرجل -
گھر میں بہت گوشت رکھنا - القوم
گوشت کھانا - الشيء درست کرنا -
الحم الرجل - مرنا۔

تَلَاَحَمَ - القوم - باہم مقابله کرنا - تلاحت
الشيء زخم پر انکور آنا - روا تخم الشيء
جُرُجَانًا - التخميت الحرب بينهم
ان کے درمیان گھسان کی لڑائی ہوتی
التخم الجرح - زخم کا انکور لانا -
استلحم - الطرقي - راستے کا کشادہ ہونا
الطريق او الطويبة - پیچھے پڑنا -
الخطب فدان - مشغول کرنا - الزرع
کھیتی کا گنجان ہونا - استلحم الرجل - لڑائی
میں پھنس جانا۔

اللحم واللحم - گوشت - ج - لحام
والجورم والحمات والحمم
لحم الشيء - ہر چیز کا گودا - اكل لحمي
درتغ فی لحمی - میری غیبت کی۔

الحممة - گوشت کا ایک ٹکڑا - تحت الثوب
کپڑے کا پانا۔

الحممة - قرابت - کپڑے کا پانا - شکار
میں سے باز کا حصہ - ج - لحم
اللحم - پھنس کو جوڑنے والی چیز -
اللحم - گوشت بیچنے والا۔

اللحم - گوشت کھانے والا -
گوشت رکھنے والا۔

اللحم - بدن پر بہت گوشت رکھنے والا
گوشت کا بہت دلدادہ -
اللحم - شیر -

اللحم - جسم میں زیادہ گوشت والا ہونا -
مقتول -

المحم - منع - گوشت کی خوراک والا -
قوم سے بلا ہوا - قیدی - ایک قسم کا
کپڑا جس کا تانا سفید ابریشم کا ہوتا
ہے۔

المحم - ن - گوشت کھانے والا - یا بہت
گوشت رکھنے والا -
المحممة - گھسان کی جنگ کا موقع -
ج - لحم -

الملاحم - من الجبال - مضبوط بٹی ہوئی
رستی -
المستلحم - ن - شیر -

لَحْنٌ (ن) لَحْنًا وَلَحْنًا
لَحْنًا وَآحَانًا - ن - کلام اد
فی القراءة - اعراب میں خطا کرنا - اعرابی
غلطی کرنا - صفت (لاحن و لحن) و لحن
دلعنا لفلان کسی سے کنایہ میں بات کرنا
کہ وہی سمجھ سکے نہ دوسرا - صفت لاحن
الیہ قصد کرنا - مائل ہونا - قولہ - سمجھنا -
لَحْنٌ (س) لَحْنًا - الرجل - دانا و ذہین ہونا
دلیل جان لینا - الکلام - کلام سمجھنا -
لَحْنٌ - غلطی و خطا کھانا - لَحْنٌ فی القراءة
قرأت میں ترم کرنا - سُر سے پڑھنا -
لَاَحْنٌ - القوم - ڈہرانا - سمجھ میں غائب آنا -
الْحَنَ - فدان القول - کسی کو بات سمجھانا -
اللحن - مع - من الاصوات - آواز - سُر
لہجہ - بولنے کی طرز - مطلب کلام -
اعراب کی غلطی - تعریض - کنایہ سے
بات کرنا - ج - الحان و لحن -



صناعة الامان - گانے کا ہنرمویتی
الملحن - لغت - ذہانت - الملحن
ذہن -

اللاحق - نتائج کلام کو جاننے والا
الملحظة - وہ جس کی غلطی لوگ بہت
پکڑیں -

الملحظة - بہت غلط تلفظ کرنے والا -
لوگوں کی غلطی بہت پکڑنے والا -

اللاحق - زیادہ ذہین - سربلی آواز
سے گانے والا - یا پڑھنے والا -
لحایحوا لحواوالتحی التحا
الشجرة - درخت کا چھکا اتارنا -

لحاء - گالی دینا -
الملحی - لکڑی چھیلنے کا اوزار -
لحوج لحوجة - علیہ الخیر - خبر کو ضمیر
کے خلاف ظاہر کرنا -

لحی یلحی لحياء - الشجرة - درخت چھیلنا -
فلاناً - ملامت کرنا - گالی دینا - عیب
لگانا - صفت نامی (لاح) صفت
مفعولی (لحی) لحياء اللہ فلاناً - اللہ
تعالیٰ فلاں پر لعنت کرے -

لا تحی لحياء و ملاحاة - الرجل کسی سے
چھڑنا - فلاناً - دفع کرنا - منع کرنا -
ایک دوسرے کو ملامت کرنا -

ألحی الحاء - قابل ملامت کام کرنا -
تلمحی تلحیا - پگڑی کو پھوڑی کے نیچے سے
پھینکا -

تلاحي تلاحيًا - المقوم - ایک دوسرے کو
گالی دینا - آپس میں جھگڑنا - لعنت
ملامت کرنا - بغض و حسد رکھنا -

التحی التحاء - دارھی نکلنا - دارھی
چھوڑنا - العود - لکڑی چھیلنا -

اللحي - جبڑا - دارھی نکلنے کی جگہ لحياء اللہ
ملا ب کے دونوں کنارے -
ج - الحج و حجی

الحاء - لکڑی یا درخت کی چھال -
الحيان - لمبی دارھی والا - مونث -

الحية - دارھی - حج حجی و حجی نسبت
کے لیے نحوی - لحيۃ الحمار - لحيۃ النیس
والرائی والمغزی - پودوں کے نام -
الحيان - تھوڑا پانی - سید کا بنائے
ہوئے گڑھے -

الاحی والحيانی - لمبی دارھی والا -
لحه دن لحتا - فقیر مارنا - لح الخیر لوری
خبر معلوم کرنا - فی السلام - غیر واضح گفتگو
کرنا - ہ بالیوب - خوشبو لگانا -

فی الجبل - پہاڑ میں بھیجا کرنا - فی الحفر
کھودنے میں جھکنا -
لخت لحتا و لحيخا و لخت (س)
لحتا - عینہ - زیادہ آنسوؤں اور

موٹی پلکوں والی ہونا - صفت (لختہ)
التخ - الامر - کام کا پیچیدہ ہونا - الغضب
گھاس کا گنجان و گھٹنا ہونا -
تلاخ - الوادی - وادی کا تنگ ہونا اور

درختوں سے بھری ہوئی ہونا -
اللحة - ناک - گندی عورت -
اللحوخ - معیوب -

الملتح - محبوط الحواس - شرابی بہت گنجان
درختوں والی وادی -
لحبه دن ن - لحنبا و لاخبة ملاخبة
لما نچہ مارنا -

اللغب - درخت گوگل -
الملغب - فقیر مارا ہوا -
لخص (س) لخصا - گوشت دار پہوٹوں
والا ہونا - آنکھ کا متورم ہونا - شخص
کی صفت (لخص) آنکھ کی صفت -

(لخصاء) حج لخص -
لخص - الکلام - کلام کو مختصر کرنا - بیان
کرنا - الشیء - خاص لینا -
اللخص - آنکھ کے پہوٹوں کی پیدائشی مٹائی

اللخصة - آنکھ کے اندر کا گوشت -
ج - لخاص -

الاحص - ظاہر - مختصر -
المخلص - مفعول - مختصر کیا ہوا - خلاصہ
لخفه - دن لختا - زور سے مارنا -
اللخت - تپے جھاگ - اللخفة -

سفید - باریک - پتھر - حج لختا -
لخمه دن لختا - لختا - لختا - لختا - لختا -
کاشا -

لخمه دن لختا - لختا - لختا - لختا - لختا -
چہرہ والا ہونا -
لاخمة لحياء و ملاخمة - ایک
دوسرے کے پتھر مارنا - لختا - لختا -

اللخمة - سستی - اللخمة - سستی -
اللخمة واللخمة - سستی - ناکارہ
کینہ -

لخین (س) لختا - بدبودار ہونا - الرجل
بیچ کلام کرنا - گندہ بغل یا بن ران
ہونا - صفت (لخن) مونث لختا -

ج - لخن -
لحا کا یلخو - لخوا - ناک سے دوائی
وغیرہ چڑھانا -

لحا کا یلخیه لحياء و لحياء - مال دینا
ناک سے دوائی چڑھانا -
لخی یلخی لخی - بہت بکواس کرنا -

لاخی لحياء و ملاخاة - الرجل دوستی
کرنا - فلاناً علی فلان کسی کو کسی کے
خلاف افسانہ - غیبت کرنا - چٹلی
کھانا -

التخی التحاء - العصبی - بچے کا تر کی
ہوئی روٹی کھانا - اسم لحياء -
اللخا او اللخی و اللحاء و الملحی -

جس سے ناک میں دوائی چڑھائی جائے
اللاخی - بکواسی - بے ہودہ گو -
لدا دن لدا و لدا لدا و ملادا

لدا دن لدا و لدا لدا و ملادا
لدا دن لدا و لدا لدا و ملادا

لدا دن لدا و لدا لدا و ملادا



وَالْدَّ - الرجل - سخت جھگڑا کرنا۔
جھگڑے میں غالب آنا۔ لَدَّه عن الشَّيْءِ
منع کرنا۔ روکنا۔ لَا دَعْنَهُ مَدْفَعْتُ کرنا۔
لَدَّ رَن لَدَّ او لَدَّو دَا وَالْدَّ الرجل
منہ کے گوشے سے دوا پلانا۔

لَدَّ الْيَدُود - لدر دوا تیار کرنا۔
الْدَّ - سخت جھگڑا تو پانا۔ اَلْدَّ
بہ ٹالنا۔

لَدَّ دَس لَدَّ دَا - بہت جھگڑا تو ہونا۔
صفت (اَلْدَّ)
لَدَّ دَا - چیراں کرنا۔ لَدَّ دَبَّہ - بدنام
کرنا۔

لَدَّ دَا - جو ان مرنے والے میں دیکھنا
کسی جگہ ٹھہرنا
لَدَّ دَا - لَدَّ دَا سے دوا پیا۔
عن الشَّيْءِ - مائل ہونا۔ ایک طرف کو
ہوجانا۔ اَلْدَّ - بڑا۔

الْدَّ - سخت جھگڑا۔
الْدَّ وَالْدَّ وَالْدَّو دَا وَالْدَّو دَا
ج اَلْدَّ وَالْاَلْدَّ - مونٹ دنا

ج اَلْدَّ او لَدَّ او اَلْدَّو دَا
الْدَّو دَا - سخت جھگڑا تو۔
الْدَّو دَا وَالْدَّو دَا - منہ کے گوشے سے

دینے کا دوا۔ اَلْدَّو دَا ان گردن یا
وادی کے پہلو۔

الْمَلْدَّ - گردن۔
لَدَّ دَس رَن اَلْدَّ دَا - لَدَّ دَا۔
ہ بیدم۔ ہاتھ سے مارنا۔ ہ بچر۔

بچر سے مارنا
لَدَّ دَس - اَلْدَّ - مورے میں پیوند لگانا
اور اس کو درست کرنا۔

الْدَّ دَس - الارض - زمین کا کچھ سبزہ
اگانا۔

الْدَّ دَس - سست دنیوی۔ اَلْدَّ دَس -
مہیا۔ ج اَلْدَّ دَس -

الْمَلْدَّ - گھٹلی ترسے کا پتھر۔ ج۔
علا دس۔

اَلْدَّ دَا رَن لَدَّ دَا و اَلْدَّ دَا - دَسَا
الْدَّ دَا - العقر۔ فلانا۔ کسی پر
بچھو چھوڑنا کہ وہ اس کو کاٹ لے۔

الْدَّ دَا - مونٹ کا دغہ۔ اَلْدَّ دَا
کانا یا اس کا نوکید کرنا۔ ہ۔

الْدَّ دَا - من الرجال - لعن و تشنیع
کرنے والا آدمی۔

الْدَّ دَا - رن کر مونٹ (دَسَا) ہوا۔ ج
لَدَّ دَا و لَدَّ دَا۔

الْمَلْدَّ - گرتنگو سے ڈسنے والا۔ طعن و
تشنیع کرنے والا۔

لَدَّ دَا رَن لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - بچکنا
لَدَّ دَا - (رَن) لَدَّ دَا - طمانچہ مارنا۔

کسی بھاری چیز سے مارنا جس کے
لگنے کی آواز آئے۔ الخبز من الملتہ
روٹی کو بھولنے سے نکالنا۔ (وَلَدَّ م)

الثوب - کپڑے میں پیوند لگا کر دست
کرنا۔

الْمَلْدَّ - علیہ الحمی - کسی کو ہمیشہ بخار
رہنا۔

لَدَّ دَا - بوسیدہ ہونا۔ پیوند لگانے
کے قابل ہونا۔ الثوب - کپڑے میں
پیوند لگانا۔

الْمَلْدَّ - مضطرب و پریشان ہونا۔
الْمَلْدَّ مَتِ النساء - عورتوں کا نام
میں منہ پر طمانچہ مارنا۔ اَلْمَلْدَّ مَتِ -
مارنا۔ ہٹانا۔

الْمَلْدَّ - زمین پر پتھر کے گرنے کی آواز۔
الْمَلْدَّ - عزت - قرابت۔

الْمَلْدَّ - ج لَدَّ دَا - اَلْمَلْدَّ - پیوند
الْمَلْدَّ - پیوند لگانے والا۔ اَلْمَلْدَّ -
من الثياب - بوسیدہ پیوند والا کپڑا۔

الْمَلْدَّ - بے وقوف۔ بھاری پُر گوشت۔
الْمَلْدَّ - ج اَلْمَلْدَّ -

الْمَلْدَّ - ج اَلْمَلْدَّ -

اَلْمَلْدَّ - بخار۔
لَدَّ دَا رَن لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - رَن

ہونا۔ صفت (لَدَّ دَا) مونٹ لینا۔
ج لَدَّ دَا و لَدَّ دَا۔

لَدَّ دَا - اشی - نرم کرنا۔ ہ فی الامر ٹھہرانا
بالمكان - اقامت کرنا۔ علیہ - دیکھنا۔

الْمَلْدَّ - من الطعام - خراب پکا ہو کر مارنا۔
لَدَّ دَا و لَدَّ دَا و لَدَّ دَا و لَدَّ دَا

نظر زمان و مکان یعنی عہد۔ پاس
موجودگی میں۔ "لی الیہ لَدَّ دَا"۔
مجھے اس سے حاجت ہے۔

الْدَّ - اَلْدَّ - زیادہ ہم عمروں والا
ہونا۔

الْدَّ - اَلْدَّ - پاس۔ قریب۔
الْدَّ - اَلْدَّ - ہم عمر۔ ہم تربیت۔ ج لَدَّ دَا
و لَدَّ دَا۔

الْدَّ - وقت ولادت۔
لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی

چیز کا لذیذ ہونا۔ خوش مزہ ہونا۔ مرغوب
ہونا۔ مزے دار ہونا۔ صفت۔ لَدَّ دَا

و لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی
لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی

لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی
لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی

لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی
لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی

لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی
لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی

لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی
لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی

لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی
لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی

لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی
لَدَّ دَا - لَدَّ دَا و لَدَّ دَا - اشی



لَذَبَ (ن) لَذُوبًا دَ لَذَبٌ سَلَاذِبَةٌ
بالمكان انا مت کرنا۔

لَذَجَهُ (ن) لَذَجًا۔ سوال میں اصرار
کرنا۔ لَذَنَ الماءُ گھونٹ لینا۔

لَذَعَ (ن) لَذَعًا۔ فدا ہونا۔ کام
سے دکھ پہنچانا۔ آگ کا چیز کو جھڑپنا۔

لَذَعَ الحلبُ ثَلْبَهُ محبت کا دل کو
تکلیف پہنچانا۔ لَذَعَ البعيرُ اونٹ

کو داغنے کے لوہے کے سرے سے
داغنا۔ الرجلُ بذَكَانِهِ ذِہانت سے

جلدی سمجھ جانا۔ الطائرُ پرندہ کا
پھر پھڑا کر بازوؤں کو غھوڑا سا بنانا۔

لَذَعَ دَابَّيْنِ بَابَيْنِ منوجہ ہونا۔ نیز ہم
ہونا۔ ذہین ہونا۔ آگ کا بھڑکنا۔

الْمُتَذَعُ درویش بن ہونا۔
الْمَلَاذِعَةُ مونث اللذیع۔ ج نواذیع

لواذیع الکلام تکلیف رساں گفتگو۔
الْمَلَاذِعُ لاذع کا مبالغہ۔ کہتے ہیں "رجلٌ

لَذَاعٌ لَذَاعٌ آدمی وعدہ خلاف ہے۔
الْمُؤَذَعُ وَالْمُؤَذَعِي تیز ذہن۔ نیز ہم۔

سمجھ دار۔ فیض سنان۔ خوش بیان۔
اللذائِقَةُ شام کے ایک شہر کا نام۔

لَذَنَ لَذْنٌ چُت و پھرنید ہونا۔ اللذالذ
چُت و پھرنید۔ جلدی کرنے والا۔

بھڑپنا۔
لَذِمَهُ (ن) لَذَمًا۔ الشیء اچھا لگنا۔

بھلا معلوم ہونا۔
لَذِمَ (ن) لَذَمًا بالمکان۔ کسی جگہ

لازم ہونا۔ پھرننا۔ بالشیء کسی چیز پر
شبقت ہونا۔ کسی چیز کا حریف ہونا۔

الذَمُّ الشیء وہ۔ حریف بنانا۔
شبقت کرنا۔ ہ بھدان۔ لازم کرنا۔

الذَمُّ بالمکان ثابت رہنا۔
الذَمُّ بحدان۔ فریقہ کیا جانا۔

الذَمَّة گھر سے جدا نہ ہونے والا۔

رجل۔ لَذِمَ وَلَذِمَ وَمِلَزَمَ
بالشیء چیز کا شوقین۔

المِلْذَم۔ بہادر۔ شجاع۔
الْمَلَاذِنُ وَالْمَلَاذِنَةُ ایک قسم کا گوند۔

لَذِي لَذِي لَذِي۔ بالامر۔ چٹنا۔
شوقین ہونا۔

الَّذِي اسم موصول ہے۔ اس میں پنج
لغات ہیں الَذِ وَالْأَذِ وَالَّذِي

وَالَّذِي وَالَّذِي۔ مونث۔ الَّتِي
تثنیہ اللذاتین واللذان والذاتین

والذین واللذین واللذان واللذان
بعض کے نزدیک الذون بحالت

رفع اور الذین بحالت نصب وجر۔
الذی کی تصغیر الذیاتی اور تثنیہ

کی الْمُذَيَاتِ اور جمع کی الْمُذَيَاتُونَ
لَذَ (ن) لَزًا وَلَزًا وَلَزًا الشیء

بالشیء۔ باہنہنا۔ ملنا۔ لازم کرنا
الشیء بالشیء ملنا۔ القوم اکٹھا

ہونا۔ بھیر کرنا۔ لَزًا بالمرح۔ نیرو مارنا
ہ۔ الی کذا۔ مجبور کرنا۔

لَزَزَ اللہ فدا۔ مضبوط ہسم والا بنانا۔
لَزَزَ لَزَاؤًا وَمَلَزَاؤًا۔ چٹنا۔ مخالفت

کا جھگڑے میں تنگ کرنا۔
الزَّكَ۔ الشیء۔ باندھنا۔ چٹانا۔

التَّزُّ۔ بہ چٹنا۔ ملنا۔
الْمُزُّ۔ مصر۔ دواڑہ کی کندھی۔

الْمُزُّ وَالْمُزَار۔ دواڑہ کی چٹنی۔ دروازہ
کی پٹی۔ سخت جھگڑا۔ چٹنے والا۔

فَدَانٌ لَزْزٌ وَلَزْزٌ شَرٌّ۔ شرارت
سے باز نہ آسکے والا۔ ناقابل اصلاح

الْمُزِيْقَةُ۔ مونث المزیز۔ ن کزائم
الْمُزَائِرُ۔ سینہ کی پٹیاں۔

الْمُزُّ۔ سخت جھگڑا۔ الو۔
لَزَاؤًا لَزَاؤًا وَلَزَاؤًا۔

الاناء برتن بھرنا۔ الماشیتہ۔ مویشی

کو سیر کرنا۔ لَزَاؤًا فَدَانًا۔ دنیا۔
تَلَزَّؤًا۔ الاناء۔ برتن بھرنا۔

لَذَبَ (ن) لَذُوبًا۔ مضبوطی سے قائم
ہونا۔ بہ چٹنا۔ لزبت السنۃ۔ قحط

سالی ہونا۔
لَزَبْتُ (ن) لَزَبًا۔ الغضب فدا نا

بچھو کا کسی کو دسنا۔
لَزَبْتُ (ن) لَزَبًا وَلَزَبًا۔ لَذَبًا

وَلَذُوبًا۔ اطمین۔ مٹی کا سخت اور
چپکنے والی ہونا۔ لَزَبْتُ الشیء۔ بعض

کا بعض میں داخل ہونا۔
تَلَذَّذْتُ۔ الشیء۔ تہ بہ تہ ہونا۔

الْمَلَزَبُ۔ تنگ راستہ۔ اللذاب نا
ہاتھ میں چپکنے والی مٹی۔

الْمَلَزَبُ۔ قحط۔ کم۔ ج۔ لَزَاب۔ ہو
بَزَبُ لَزَبٌ۔ وہ کنوارا ہے

اللذبة۔ سختی۔ قحط۔ ج۔ لَزَبٌ وَلَزَبَةٌ۔
الْمَلَزَابُ۔ بڑا بچیں۔ ج۔ ملازب۔

لَزَجَ (ن) لَزَجًا وَلَزَجًا۔ لیسدار
ہونا۔ چپکنے والا ہونا۔ صفت (لَزَج)

تَلَزَّجَ۔ چپکنے والا ہونا۔ البقل سبزی
کا نرمی کی وجہ سے ایک دوسرے پر

جھکنا۔ الدابة البقول۔ سبزی کے لیے
جانا۔

الْمُزَوَّجَةُ۔ چپک۔ چسپیدگی۔ رجلٌ
لَزَجَةٌ وَلَزَجَةٌ۔ گھر پر رہنے

والا آدمی۔
لَذَقْتُ (ن) لَذَقًا وَلَذَقًا۔ بہ چٹنا

چپکنا۔ (لَزَقًا) الرئۃ بالجنب۔
پیاس کے سبب پھیپھڑے کا پھوسے

چپکنا۔
لَزَقَهُ لَزَاؤًا وَمَلَزَقَهُ۔ چپکنا۔

الزقة۔ بہ۔ چپکنا۔
لَزَقْتُ الشیء۔ چپکنا۔ کچی کمزور کام کرنا۔

الْمِلَاقُ۔ پہلو۔ ساٹھی۔ "ہو لڑتی و بڑتی۔"

التَّصْبُّبُ - الشی تنگ ہونا۔ المصَّب - وادی کا تنگ حصہ۔ پراڑ کی چوٹی۔
گھاٹی۔ ج لَصُوبٌ دلصاف۔
المصَّب - بخیل۔ المصَّب - تنگ گرت۔ کنوئیں۔
المصَّت - چور۔ لَصُوت -
لَصَعَ - لَعْدَ (نہ) الجلد۔ جلد کا ہڈی پر
نخشہ ہونا۔
لَصَفَ (س) لَفَ ذَا - الجلد۔ پیرے کا
ہڈی پر خشک ہو کر پینا۔
لَصَفَ - لَفَ ذَا - الجلد۔ پتھر کو تیز
سورجوں۔ رَاَصَفَا - لَوَا (وہ) وَا
لَوْنُ - رنگ پکنا۔
لَفَقَ لَفَقًا وَلَصُقًا وَالتَّشْقُ - (اش) -
چیکنا۔ مینا۔
الْمُتَّقُ - (اش) بالشی - چیکنا۔
الْمُتَّقُ وَالْمُتَّقُ - نزدیک رہنے والا۔
ساقی۔ "مُتَّقِي وَمُتَّقِي وَصِيقِي" وہ
میرے پیو کے ساتھ ہے۔
الْمُتَّقُ - نرم پر چھپائے جانے والا نرم
عضو پر بندھنے کا۔
الْمُتَّقُ - مضم متبنی۔ منہ بدل بیٹا۔
مُتَّقَ - مُتَّقَ -
لَصَلَصَ - اَلْوَدَّ وَخَرَّهَ - شیخ وغیرہ کو
نکلانے کے لیے بلانا۔
لَصَا يَلْصُقُ لَصُوعًا - المرأة - عورت پر
تمت لگانا۔ گالی دینا۔
لَصَى يَلْصِقُ لَصِيًا وَلَصَى يَلْصِقُ لَصِيًا
الیہ - تمت یا شک کی وجہ سے ملنا۔
لَصَا لَصِيًا - عیب لگانا۔ لَصَى
الرجلُ - گنہگار ہونا۔
الْمَصَاةُ - عیب۔
لَصَلَصَ لَصَلَصَةً - وائیں بائیں بہت
دیکھنا۔
الْمَصْلَاحُ - رہنمائی میں ماہر۔

لَضَمَّة (ض) لَضَمًا - سختی کرنا - اصرار کرنا -
لَضَمًا يَلْضَوْنَ لَضَوًا - الرجل - اچھا رہبر ہونا -
لَطَّ (ض) لَطًّا - الباب - دروازہ بند کرنا -
الشيءَ جھپٹنا - اشتهر پر وہ لگانا -
الرجل جھٹھ دے عن حقہ کسی کے حق سے
انکار کرنا - عنہ وعلیہ الخبر - کسی سے خبر
چھپانا - یا لامر لازم ہونا - الشيءَ بکذا -
چپکانا - لطف الناقۃ بذنبها - اونٹنی کا
دور تے وقت دم کو رانوں میں دبانا -
لَطَّ (ن) لَطًّا - بالعصا - لاطھی سے مارنا
الطَّ - علیہ الامر جھپٹنا - الرجل جھکے
یا کام میں سخت ہونا - الغریم حتی روکنا -
فذلًا - مدد کرنا -

الطَّ - بالحجاب - پردہ چھوڑنا - (وَلَطَّطَ)
حق فذلًا - کسی کے حق سے انکار
کرنا -

التَّطَّ - جھپٹنا - الشيءَ جھپٹنا - التَّطَّ
بالسک - مشک میں لفظ ہونا -
اللطَّ - مم - ہار یا حفظ کے سرخ دانوں
کی مال - ج - لَطَّاطٌ -
اللطَّ - خصم -

اللطَّط - قرض کا انکار - دانتوں کا گرنا یا
کھایا جانا - چیز کا چھپانا -

اللَطَّاطُ والمَلَطَّاطُ - پہاڑ کی چوٹی کا
کنارہ - پہاڑ کا پہلو -

اللَطَّاط - وادی کا کنارہ -

اللاطَّ والمَلَطَّ - خبیث - بدعاش -

الْأَلَطُّ - وہ جس کے دانت گر گئے ہوں
یا کھائے گئے ہوں اور صرف جڑیں
باقی ہوں -

المَلَطَّاط - سمندر کا ساحل - عام شاہراہ
گھر کا صحن - لینے کی کرنی - بیلن - چکی
یا ہتھکچی - دماغ تک پہنچنے والا زخم -
وادی کا کنارہ -

المَلَطَّوط - مفع - اونڈھی کی ہوئی ڈھال -

لَطَّارَت (س) لَطَّارًا و لَطَّارًا (س) لَطَّارًا زمین
سے چھیننا - لَطَّارًا بالعصا - پیٹھ پر
لاٹھی مارنا -

الْمَلَّاطِيَّةُ - اچھانہ ہونے والا چھوڑا -
دماغ تک پہنچنے والا زخم - چھوٹی
لوٹی جو سر سے چپکی ہوتی ہو -

المَلَّاطُ والمَلَّاطَةُ - سر کی ہڈی اور اس کے

گوشت کے درمیان کا باریک پردہ -

لَطَّتْ (ن) لَطَّاتًا - چوڑی چیز سے مارنا -

تھپڑ مارنا - ہ - حجر تھپڑ مارنا - لَطَّتْ الشيءَ

جمع کرنا - الشيءَ خراب ہونا - ہ الامرُ

کسی پر کوئی کام مشکل ہونا -

تَلَّاطَتْ - الموح - موموں کا ٹکرانا - القوم

باتھوں سے ایک دوسرے کو مارنا -

المَلَّاطَتْ جسم کے ضرب رسیدہ حصے -

لَطَّعَتْ (ن) لَطَّعًا - تھپڑ مارنا - لَطَّعَ به

زمین پر بیکھڑنا -

لَطَّعَ (ن) لَطَّعًا - الشيءَ بالمداد و نحوہ -

آلودہ کرنا - تھپڑنا

المَلَّطُخ - مم - تھپڑنا حصہ - المَلَّطُخ - گندی

غذا کھانے والا -

المَلَّطُوح - جس سے چیز آلودہ کی جاتے -

المَلَّطُحَّة - ج - لَطَّاتٌ و المَلَّطُحَّة - الحق

بے وقوف -

لَطَّسَتْ (ن) لَطَّسًا - طمانچہ مارنا - چوڑی

چیز سے مارنا - باریک پینا ہ - حجر - تھپڑ

مارنا - الشيءَ سخت روندنا - الحجر بالحجر

تھپڑ کو تھپڑ سے مارنا -

لَطَّسَتْ مَلَّاسَةً - تھپڑنا - آلودہ ہونا -

تَلَّاسَ - الموح - لہروں کا آپس میں ٹکرانا -

المَلَّطَس - ج - مَلَّاسٌ و المَلَّطَسُ

ج - مَلَّاسٌ - گھٹی کوٹنے کا ہتھیر -

تھپڑ توڑنے کا ہتھیر - اونٹ کی تلی -

لَطَّعَ (ن) لَطَّعًا - الشيءَ بلسانہ

زبان سے چاٹنا - فذلًا پیچھے سے لات

مارنا - لَطَّعَ الغرض - نشانہ پر مارنا -
فذلًا بالعصا لاطھی مارنا - عذبتہ - آنکھ
پر تھپڑ مارنا - الکلب أو الذئب الماء
کتنے یا بھیرے کا پانی پینا - اسمہ - نام
کو دیوان سے ملنا - دیوان میں نام لکھنا
لَطَّعَتِ البئر - کنوئیں کا پانی خشک ہونا
لَطَّعَ الصبدا - مرگیا -

لَطَّعَ (س) لَطَّعًا - دانتوں کا گرنا اور صرف

ان کی بڑوں کا باقی رہنا - سفت (اللطع)

تَلَطَّعَتْ - الابل - اونٹ کے دانت لسیب

بڑھاپے کے گر جانا -

التَّطَّح - برتن یا حوض کا سب پانی پی جانا

الشيءَ چاٹنا -

المَلَّطَّح - مم - تالو - ج - الطارح -

المَلَّطَّعُ - مونٹ - الالطَّع - لاغر - ج

لَطَّعَ -

المَلَّطَّح - مم - ہونٹ کے اندر کی سفیدی -

المَلَّطَّاع - کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے

والا -

لَطَّفَ (ن) لَطْفًا - لطفانہ - مہربانی

کرنا - اللہ بالعبد و لہ - توفیق دینا - بچانا -

الشيءَ - قریب ہونا -

لَطَّفَ (ن) لَطْفًا و لَطْفًا - چھوٹا ہونا

باریک ہونا - صفت (لطیف) - کلام

کلام کا نرم ہونا -

لَطَّفَ - الشيءَ - نرم بنانا - لطیف بنانا -

لَطْفَةٌ مَلَّافَةٌ - نرمی کا برتناؤ کرنا - نرم

بات کرنا -

الطَّفُ السُّؤال - اچھی طرح سوال کرنا -

نرمی سے سوال کرنا - ہ بکذا - تحفہ دینا

مہربانی کرنا -

تَلَطَّفَ - خاکساری کرنا - بہ جید کر کے عیدوں

کو معلوم کرنا - الامر و فی الامر - نرمی بڑھانا -

تَلَطَّفَ - القوم - آپس میں میل ملاپ کرنا -

نرمی کا برتناؤ کرنا -



اَسْتَلْطَفَهُ - لطیف پانا چٹانا۔

الْلُطْف - احسان - تحفہ - مہربانی۔

تَقَطَّرَ اَکْهَانَا - ج - اَلطَّافُ - ہوا
اَلطَّافُ فَنَان - یہ فنان کے دوست و
رشتہ دار ہیں۔

اَللُّطَفَةُ - تحفہ - ہدیہ - اللُّطْف - ہم۔

مِنَ اللّٰهِ تَوْفِيقٌ وَحِفَافَتِیْ اِلٰہِی - ج

اَلطَّاف - اللطیف - باریک - پاکیزہ

نرم - مہربان - ج - اَلطَّافُ وَ اَلطَّافَةُ

اللطیف - اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی

میں سے ہے - یعنی بندوں پر احسان

کرنے والا - باریک سے باریک بات

کا جاننے والا - اللطیف من الکلام ایسا

کلام جس کے معنی مخفی ہوں - من الاجسام

فازک جسم۔

اَللَّطَافُ - بہت نرمی برتنے والا۔

اَللُّطِيفَةُ - مونث - اللطیف - نفس میں

اتباط پیدا کرنے والا لکھنے - ج - اَلطَّافُ -

اَللَّوْاطِفُ - من الاضداد - سینہ سے ملی

ہوتی پسلیاں۔

اَللُّطْفَانُ - مہربان - نرمی کرنے والا۔

لَطْمُهُ (ن) لَطْمًا - تھپڑ مارنا۔ ہ بکذا

چپکانا۔

لَطْمٌ - اَلْفَرْسُ - گھوڑے کا ایک رخسارے

پر سفید داغ والا ہونا۔ صفت (لطیم)

دند کر مونث - ج - لَطْمٌ - و لَطْمُ الرَّجُلِ -

ظلم کیا جانا۔

لَطْمَةٌ - زور سے تھپڑ مارنا۔ لَطْمَ الْکِتَابِ

خط پر مہر لگانا۔

لَا طَمَةَ لَطَامًا وَمَلَا طَمَةً - ایک دوسرے

کے تھپڑ مارنا۔ تھپڑ مارنا۔

تَلَطَّمَ وَ حَبَبٌ بِحَبْرٍ کا خاکستری رنگ کا ہونا۔

تَلَا طَمَتْ وَ التَّنْظَمَتْ - الامواج موجوں

اور لہروں کا آپس میں ٹکڑانا۔ القوم

ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔

اَللَّطْمَةُ - تھپڑ - ج - لَطْمَات -

اَللَّطِيم - تھپڑ مارا ہوا۔ ایک رخسار پر

سفیدی والا گھوڑا۔ گھوڑ دوڑ۔ کالوں

گھوڑا۔ مشک۔ نراونٹ۔ وہ لڑکا

جس کے مال باپ مر گئے ہوں۔

اَللَّطِیْمَةُ - مشک - نافہ مشک - عطاروں

کا بازار - ج - لَطَائِم -

اَلْمَلَطَم - رخسارہ - اَلْمَلَطَم - بچانے

کا پڑھ۔

اَلْمَلَطَم - وہ جگہ جہاں سمندر کی موجیں

ٹوٹیں۔

اَلْمَلَطَم - مغف - لیتیم۔

لَطًا یَلْطُو لَطْوًا - بارش وغیرہ سے کسی

غار یا چٹان میں پناہ لینا۔

لَطًی یَلْطِی لَطِیًّا - الریح زمین سے چٹنا۔

لَطًی (س) لَطًی - الرجل - لوجھل کرنا۔ فنا

بذاتک - کسی چیز کے متعلق گمان کرنا۔

تَلَطَّیْ تَلَطَّیًّا - علی العدو - دشمن کی غفلت

کا انتظار کرنا۔

اَللَّطَاكَةُ - زمین - جگہ - پیشانی - یا پیشانی

کا دسط - لطاۃ الرجل - آدمی کا سامان

و اسباب - القی بطنانہ - اُس نے اپنا

لو جھانٹا دیا۔

اَللَّطَاط - قریب کے چور۔

اَلْمَلْطِی و اَلْمَلْطَاكَةُ - باریک جھلی جو سر کی ہڈی

اور گوشت کے درمیان ہوتی ہے۔

لَطْمُهُ (ن) لَطْمًا و لَطِیْمًا - لازم ہونا۔ اصرار

کرنا۔ لَطْمٌ لَطْمًا و لَطْمًا -

لَا طَمَةَ لَطَامًا و مَلَا طَمَةً - فی الحرب اصرار

کرنا۔

اَلظُّ - اصرار کرنا۔ المطر - بارش کا لگنا

برسنا۔ بالمكان - اقامت کرنا۔ بالشیء

جھٹے رہنا۔

تَلَاظَ القوم فی الحرب - لڑائی میں ایک

دوسرے کو سنانا۔

تَلَطَّطَتْ تَلَطَّطًا - الجیتہ - سانپ کا

سخت غصہ سے سر ہلانا۔

اَللَّظُّ - ہم - سخت طبیعت اَلْمَلْظُ -

و اَلْمَلْظَاظ - اصرار کرنے والا۔

اَللَّظَاء - قصوری چیز۔

لَطِیْتُ تَلْطِی لَطًی - النار - آگ کا بھڑکنا

لَطًی تَلْطِیَّة - النار - آگ کا بھڑکانا۔

تَلَطَّطَتْ وَ التَّنْظَمَتْ - النار - آگ کا بھڑکنا

غصہ سے جل اٹھنا۔

اَللَّظِی - ہم آگ یا اس کی بھڑک - لَطًی (مفر)

دورخ۔

اَللَّحَّ - دین کا ابتدائی رویدگی والی ہونا۔

تَلْغَی - اللعاع - ابتدائی کھانا۔

ابتدائی رویدگی - جمع کرنا۔

اَللُّعَاعُ - ابتدائی واحد لعاعة

اور اسی سے ہے الدُّنْیَا لَعَاعَتُہَا یعنی

دنیا ابتدائی رویدگی کی طرح ہے۔

جس کو بقا نہیں۔

اَللُّعَاعَةُ - کاسنی - ارزانی سال - دنیا

ایک گھونٹ - لعاعة الاناء برتن کا

خالص حصہ - ج - لعاع -

اَللُّعَاعَةُ - نہ تکلف سر نکالنے والا۔

اَللُّعَةُ - پاک دامن خوبصورت عورت۔

لَعَبٌ و لَعِبٌ (س) لَعِبًا - الصبی - بچے

کے منہ سے رال ٹپکنا۔

لَعِبٌ (س) لَعِبًا و لَعِبًا و لَعِبًا و لَعِبًا

کھیلنا - مزاح کرنا۔ لذت و تفریح کی

خاطر کوئی فعل کرنا۔ ایسا فعل کرنا جس

پر کوئی فائدہ مرتب نہ ہو۔ بکذا - کھیل

کی چیز بنانا۔ فی الامر - کام کو خیر جاننا۔

لَعِبَتْ الرِّیاضَ بالدیدار - گھر ہواؤں کے

کھیل میں - یعنی ہواؤں نے گھر کو خراب

کر دیا۔

لَعَبٌ - معنی لعب - اَلْعَبَ معنی لعب

ہ - کھلانا۔ یا کھیل کی چیز لانا۔ الصبی

رال ٹیکانا۔

لَا عِبَةَ مَلَا عِبَةً۔ آپس میں کھیلنا۔

تَلَاعَبَ وَتَلَعَبَ۔ بمعنی لعب۔

اَسْتَلْعَبْتُ۔ النخلة۔ پیس باقی رہتے ہوئے دوبارہ شکوہ نکالنا۔

الْمُلْعَبَةُ۔ کھیل۔ کھیل کی نوبت دوبارہ

جس سے کھیلا جائے۔ مثلاً شطرنج

وغیرہ۔ بے ذرورت جس سے سخری کی

جائے۔ ج۔ لعب۔

الْإِلْعَادِيَّةُ۔ کھیل۔

اللُّعَابُ۔ منہ کی رال۔ لعب النخل۔ شد

لعب الحجة۔ سب کا زہر۔ لعب

الشيش۔ سورج کی کرنیں۔

اللُّعَابِيُّ۔ منسوب بلعب۔

اللُّعَابِيَّةُ۔ پھولوں کا رس۔

اللَّعِبُ۔ مہم۔ کھینے والا۔ کھلاڑی۔

اللُّعُوبُ۔ ناز و انداز والی حسینہ۔ ج۔

لَوَاعِبُ وَلُعَابٌ۔

اللُّعْبَةُ وَاللُّعَابُ وَالْمُلْعِبُ وَ

التَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

وَالْتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

وَالْتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

وَالْتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

وَالْتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

وَالْتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

وَالْتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

وَالْتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

وَالْتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

وَالْتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

وَالْتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

وَالْتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

وَالْتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

وَالْتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ وَالتَّلْعَابُ

سوچنا۔ بہت جاننا۔

لَعَجَ (ن) لَعَجًا۔ الضرب فذاتاً۔ چوٹ کا

تکلیف دینا اور سوزش پیدا کرنا۔

الشيء في صدره كهللنا۔ الحب او الحزن

قبله محبت یا غم کا کسی کے دل کو جلانا۔

لَا عَجَ لَهُ۔ مَلَا عَجًا۔ الامر سخت ہونا۔

اللعج۔ آلعج۔ آگ جلانا۔

اللاشيء۔ لا۔ بے۔ لے والی محبت۔ ج۔

لَوَاعِجُ

اللَّعَجُ۔ ہر جہانے والی چیز۔ چوٹ کی تکلیف

جلن۔

اللَّعْذَمُ۔ فی الامر۔ سستی کرنا۔ تَلْعَذَمَ

من الكلام۔ حیرانی سے متروک ہونا۔

تَلْعَذَمْنَا شَيْئًا۔ ہم نے کچھ نہیں کھایا۔

اللَّعْذِيحُ۔ حریص۔

لَعَزَكَ (ن) لَعَزًا۔ ہٹانا۔ مکا مارنا۔

لَعَزَتِ الناقة ففيلدا۔ اونٹنی کا بچہ

کو چٹانا۔

لَعَسَهُ (ن) لَعَسًا۔ دانتوں سے کاٹنا۔

لَعَسَ (س) لَعَسًا۔ سیاہی مائل۔ سُرخ

اونٹ والا ہونا۔ صفت (اللعس) موت

لَعَسًا۔ ج۔ لَعَسَ۔ اللعسہ۔ سیاہی

مائل۔ سُرخ رنگ۔ ما زلت لَعَسًا

میں نے کچھ نہیں چکھا۔

اللُّعُوسُ۔ تھوڑا کھا۔ لے والا۔ کھانے کا

حریص۔ بھیڑیا۔ ج۔ لَعَادُسُ۔

اللُّعَسُ۔ من النبات۔ گنجان پودہ۔

الْمُتَلَّسُ۔ من الرجال۔ بہت لھاؤ۔

تَلْعَسَ۔ فی امرہ۔ دیر لگانا۔

لَعِصَ (س) لَعِصًا۔ الامر۔ کام کا دشوار

ہونا۔ الرَّجُلُ۔ فی الاكل او الشرب

کھانے پینے میں بہت حریص ہونا۔

صفت (لَعِص)

تَلْعَصَ۔ علینا۔ سختی کرنا۔ بہت مشکل ہونا۔

کھانے پینے میں حریص ہونا۔

لَعَطَ (ن) لَعَطًا۔ جدی چیلنا۔ اونٹوں کا

مکانوں کے ارد گرد چرنا۔ گردن پر

داغنا۔ شعروں میں ہجو کرنا۔ تیر مارنا

یا نظر لگانا۔ حق میں مال مٹول کرنا۔

جانور کا نباتات چرنا۔

الْعَطُ۔ الرجل۔ پہاڑ کے دامن میں چلنا۔

اللَّعْطُ۔ مہم واحد الالعاط کا لے یا زرد

خضوط جو عورت اپنے چہرے پر ڈالتی

ہے۔

اللُّعْطُ۔ پہاڑ یا دیوار کا پار۔ پہاڑ کا دامن

ج۔ العاط۔

اللُّعْطَةُ۔ بد نظری۔ بھیڑ کی گردن کا سیاہ

داغ۔ شکرے کے پیرے کی تیرگی۔

اللُّعْطُ۔ گردن پر سیاہ داغ رکھنے والی

بکری۔

اللُّعْطُ۔ گھردس کے ارد گرد کی چراگاہ۔

ج۔ مَلَا عَطَ۔

الْعَفَّ وَتَلْعَفَ۔ دبک کر بیٹھنا۔ اونٹ

یا شیر کا بار بار آنکھ کھولنا۔ بند کرنا۔ شیر

کا غصہ میں آکر حملہ کے لیے تیار ہونا۔

لَعَقَ (س) لَعَقًا وَاحَقَةً وَلَعَقَةً۔ العسل

دوغہ۔ شہد وغیرہ کو زبان یا انگلی سے

چاٹنا۔ صفت (لَعَق) ج۔ لَعَقَ۔ لَعَقَ

فلان اَصْبَعُ۔ فلاں مرکب۔

الْعَقَّ وَلَعَقَ۔ فلان العسل۔ شہد چٹانا۔

العق النساء النوب۔ بیکے سوت کا

کیرا بننا۔

الْمُتَلَقِّ۔ لونہ رنگ بدلنا۔

اللُّعْقَةُ۔ مہم۔ سبز چراگاہ کا بقیہ حصہ۔

اللُّعْقَةُ۔ مہم چمچہ بھر۔ کتے میں "جل و غن"

لَعَنَ۔ حریص آدمی۔

اللُّعَفُ۔ چاٹی ہوئی چیز کا منہ میں بقیہ حصہ۔

اللُّعُوقُ۔ چٹنی۔ چاٹنے کی۔ چیز۔ تھوڑا

تورنہ۔

الْمُلْعَقَةُ۔ حجبہ ناشق۔ ج۔ مَلَا عَقَ۔



لَعَلَّ - حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع۔ توقع کے معنی دیتا ہے اور حروف کے معنی کے لیے بھی آتا ہے۔ کبھی اس کے شروع سے لام حذف کر کے عَلَّ بھی کہتے ہیں اور اس پر تاکاذ بھی لاتے ہیں جیسے لَعَلَّمَا۔ اس کے معنی ہیں شاید۔ ہو سکتا ہے۔ جب یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کے معنی واجب کے ہوتے ہیں۔

لَعْلَع - العظم ونحوہ۔ بڑی وغیرہ توڑنا۔ الرعد۔ بادل کا گرجنا۔ السراب۔ سراب کا چمکنا۔ من الشئ چیز سے تنگ ہونا۔ من الجوع بھوک سے غمگین ہونا۔ بالعائر۔ پھسلنے والے سے لَعَّ یا لَعْنَع یا لَعَّا کہنا۔

لَعْلَع - لَوَّنا۔ من الجوع۔ بھوک سے پیچ ذباب کھانا۔ الرجل۔ ٹھکن یا بیماری سے کمزور ہونا۔ السراب۔ سراب کا چمکنا۔ الکلب۔ کتے کا پیاس کی دہ سے زبان لٹکانا۔ اللعاح۔ سراب۔ بھیڑبا۔ ایک حجازی درخت۔

اللعلاع۔ بزدل۔ اللعید۔ لعاب۔ لَعْمَطَ لَعْمَظَةً وَلَعِمَ ظَا۔ اللحم گوشت کو بڈی سے نوچنا۔ اللعْمُظُ وَاللَعْمُوظُ وَاللَعْمُوظَةُ حریص۔ لَعَامِظَةٌ وَلَعَامِيظٌ۔ اللعْمُوظُ۔ بن بلایا مہمان۔ ردی پر خدمت کرنے والا۔

لَعْنٌ رَفٌّ لَعْنًا۔ ذُلًّا۔ لعنت کرنا۔ شر کرنا۔ گالی دینا۔ نیکی سے دور کرنا۔ دھتکارنا۔

لَعْنَةٌ۔ تَلْعِينًا۔ عذاب دینا۔ لَأَنَّه لَعَانًا وَمَلَأْنَاهُ۔ ایک دوسرے

پر لعنت کرنا۔ الحاکم بینہما۔ حاکم کا دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔

لَعْنًا عَنَّا وَالتَّعْنُ۔ ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔

التَّعْنُ۔ اپنے آپ پر لعنت کرنا۔

اللَعْنُ وَاللَّعْنَةُ۔ لعنت۔ عذاب۔ ج لَعْنَاتٌ وَلَعْنٌ۔ "أَبِيتَ النَّعْنَ"۔

جاہلیت کے زمانے میں بادشاہ کا سلام یعنی اسے بادشاہ تو نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے تو ملامت کا مستحق ہو۔

اللَّعَانُ وَاللَّعَانِيَةُ۔ لعنت۔

اللَّاعِنُ۔ نَا۔ أَمْرٌ لَاعِنٌ۔ باعث لعنت کام کرنا۔

اللَّعَاتُ۔ بہت لعنت کرنے والا۔ اللَّعْنَةُ۔ جس پر لوگ ہمیشہ لعنت کریں۔ اللَّعْنَةُ۔ جو لوگوں پر بہت لعنت کرے۔

ج۔ لَعْنٌ۔ اللَّعِينُ۔ لعنت کیا ہوا۔ بد بخت۔ منحوس مسخ کیا ہوا۔ رسوا۔ ہلاک شدہ شیطان کھیت میں قائم کیا ہوا دراوا (دھوٹا) المَلْعَنَةُ۔ پانچمانہ۔ ج۔ لَعْنٌ (وَاللَّاعِنَةُ) دھڑ راسند۔

المَلْعُونُ۔ مغم۔ ج ملاعین۔ تَلَعَّى۔ الحس۔ شند کا گارھا ہونا۔ ہریدول اکٹھی کرنا۔

اللَعْوُ۔ بد خلق۔ کبیر۔ حریص۔ ج لَعَاءُ المَعْوَةُ۔ سرپستان کے ارد گرد کی سیاہی۔ لَعْوَةُ الحور۔ بھوک کی شدت (واللعاة) کتیا۔ ج۔ لَعَاءُ وَلَعَوَاتُ۔ اللاعی۔ نا بہت ڈرپوک۔

اللاعی۔ نا۔ بہت ڈرپوک۔ المَلْعِيَةُ۔ مونث اللاعی۔ ایک درخت جس کے زرد رنگ کے خوشبودار پھول ہوتے ہیں۔

اللَعَاءُ حریص۔ لالچی۔ "لَعَالِكَ"۔ ٹھوکر

کھانے والے کے لیے۔ یعنی خدا تجھے اٹھائے اور کھڑا کرے۔ اور "لَعَالِكَ"۔

بد دعا کے موقع پر بولتے ہیں۔ الأَلْعَاءُ۔ انگلیوں کے پورے۔

لَعَوَقُ۔ کام میں تیزی کرنا۔ اللَعَوَقُ۔ کم عقل۔

لَعَبٌ رَفٌّ (ن) وَلَعِبَ رَكَ لَعِبًا وَ لَعُوبًا وَلَعُوبًا وَلَعِبًا (س) لَعِبًا۔ بہت تھکنا۔

لَعِبَ رَفٌّ لَعِبًا۔ القوم۔ جھوٹی بات کہنا۔ علیہم۔ فساد ڈالنا۔ الکلب فی الاناء۔

کتنے کاربن میں منہ ڈالنا۔ لَعِبٌ وَ لَعِبٌ وَ لَعِبٌ۔ السیر فلاناً۔

بہت تھکنا۔ لَعِبٌ داہنہ۔ جالوز پر بوجھلا کر تھکا دینا۔ تھکا ہوا پانا۔

لَعِبٌ فَلاناً۔ تھکانا۔ تَلْعَبُ الانسان والحيوان۔ انسان یا حیوان کو دور بھٹکا دینا۔

اللَّاعِبُ۔ نا۔ ضعیف۔ کمزور۔ ج۔ لَعِبٌ کتنے ہیں اتنا ساعدا۔ لا عبادہ ہمارے پاس بھوکا تھکا ماندہ آیا۔

اللَّاعِبَةُ۔ مونث۔ اللاعِبُ۔ ج۔ لَوَاعِبُ۔

اللَعِبُ وَاللَّغُوبُ۔ ضعیف۔ احمق۔ اللَعِبُ۔ کلام فاسد۔

اللَعِبُ وَاللَّغِبُ وَاللَّغِبُ وَاللَّغِبُ۔ خراب پر۔

اللَغَابُ۔ خراب تر شا ہوا تیر۔ اللَّغَابَةُ وَاللَّغُوبَةُ۔ کمزوری بے وقوفی

لَعْدٌ (ن) لَعْدٌ۔ اہل العوائد۔ اونٹوں کو سیدھے راستے پر لانا۔

عن کذا۔ روکن۔ فلاناً۔ کسی کے لغو و پر مارنا۔

اللَعْدُ۔ ج۔ العاد واللَعْدُ و اللَعْدِيدُ۔ ج۔ نَعَادٍ بید خلق کا



الْفَقَّ - الطائرُ راسه - پرندہ کا اپنے سر کو بازوؤں میں کر لینا - الرجلُ راسه - جبہ میں سر کو چھپا لینا -

الْتَفَتْ وَتَلَفَّتْ - فی ثوبہ - کپڑے میں لپٹنا -

عليه القوم - قوم کا کسی پر جمع ہونا -

الْتَفَّتِ النِّبَاتُ - گنجان اور گھٹنا ہونا -

له على الحق غضبناک ہو کر لپٹنا - الشئ

گنجان ہونا - القوم - آپس میں ملنا -

الْتَفَّ - مصر - جاؤ دا - بَلِّغْهُمْ وَبَلِّغْهُمْ - وہ

بے جملے ہوئے لوگوں کے ساتھ آئے -

الْتَفَّ - پارٹی - گردہ - جمع شدہ قوم - ادھر

ادھر سے جمع کیا ہوا - گنجان باغ - ج -

الْفَاتُ وَلَقَوْنَا - کہتے ہیں - جاؤ دا

ومن لَفَّ لِفْغَمٍ - وہ اپنے ہی آدمیوں

کے ساتھ آئے - رَوَضَتْ لَفَّ دِلْفَ

وَلَفَّةٌ وَلِفَّةٌ وَلَقَاءٌ - گنجان درختوں

وال باغ -

الْمِصَاقَةُ - لپیٹنے کی چیز - دل کے اوپر کی

چربی - سگریٹ - ج - لقاقت -

الْلَفَف - پٹھے کا مروڑ یا کھچاؤ - زیادہ اور

ملا جڈا کر کھانا -

الْلَفِيف - جھنڈا دار اور گھنے درخت - مخلوط

گردہ - ہولیفیف فدان - وہ فدان کا دست

ہے -

الْلَفِيف - مجموعہ - اونٹ کی پیٹھ کا گوشت -

سگریٹ - ج - لقاقت -

الْاَلَف - کھائی کی ایک رگ - صاف گفتگو

نہ کر سکنے والا - کام میں سست - بے

ہوئے ابروؤں والا - لوگوں سے بھری

ہوئی جگہ - مونث - لقاؤ - ج - لَفَّ -

الْتَلَاْفِيف - گنجان گھاس -

الْمَلَف وَالْمَلْفَات - کبل اور ڈھنے کی چیز

لحاف وغیرہ - بجلی کا تار - لپٹی ہوئی سلاخ

چکر - جس پر تار لپیٹا جائے -

لَقَاءٌ لَقَاءٌ وَلَقَاءٌ - العود - لکڑی چھیننا -

اللحم عن العظم - ہڈی پر سے گوشت

اتارنا - الریح السحاب عن وجه الارض -

ہوا کا بادلوں کو پر اگندہ کرنا - فداناً

عن مرادہ - رد کرنا - ہٹانا - غیبت

کرنا - حقه - حق سے کم دینا - حق گھٹا

دینا - حق پورا پورا دینا - (صند) بالعصا

لاصحن سے مارنا -

لَفَّي (رس) لَفَاءً - الشئ چیز کا باقی رہنا -

أَلْفَاءُ لَفَاءً - الشئ چیز کو باقی رکھنا -

الْإِنْفَاء - العود - لکڑی چھیننا -

الْمَقَاء - مٹی - تھوڑی چیز - حق سے کم -

الْدَفِيفَة - بغیر ہڈی کے گوشت کا ٹکڑا - ج -

لَفَّيَا وَلَفَّي -

لَفَّتْ - (رض) لَفَّتَا - الشئ چیز کو دائیں یا بائیں

موڑنا - رَوَاهُ عَنْ عُنْقِهِ - چادر کو گردن پر

موڑنا - الریش علی السهم - نیزہ پر - کیفاً

الْفَقَّ لَكَ - الراعی المسالمة - چرواہے

کا مویشی کو بُری طرح مارنا - اللحاء عن

الشجر - درخت سے چھال اتارنا - الكلام

لا پر وای سے گفتگو کرنا -

لَفَّتْ الشئ - موڑنا - التَفَّتْ وَتَلَفَّتْ -

البہ - چہرہ پھینا - مڑ کر دیکھنا - پروا کرنا

خیال رکھنا -

الْلَفَت - شغف - کسی چیز کا نصف یا پہلو -

گائے - بے وقوف عورت -

الْمَفَّت - بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا -

فی النیس - مینڈھے کے سینک کی

خمیدگی -

الْمَقَات - بے وقوف سخت خو -

الْمَفْتَة - جانوروں کو ہمیشہ مارنے والا

چرواہا -

الْأَلَفَت - وہ مینڈھا جس کا ایک سینک

بیمج دار ہو - مضبوط ہاتھ والا - بائیں ہاتھ

سے کام کرنے والا - بے وقوف - ہینکا

مونث - لَفَاء - ج - لَفَّت -

الْمَفُوت - سخت مزاج - چیل خورد عورت

وہ اونٹنی جو دودھ دوتے وقت بے چین

ہو - وہ عورت جس کی نظر ایک جگہ نہ

ٹھہرے -

الْمَفِيتَة - ایک قسم کا گارھا حلوا -

الْمُتَلَفَّة - کندھے کی ہڈی کا ادھری حصہ -

الْفَجَّ - مال جاتا رہنا - اور مفلس ہو جانا -

عم وغیرہ کی وجہ سے زمین سے چٹنا -

فداناً - محتاج بنانا - مجبور کرنا -

الْمَفَجَّ - ذلت - الْمَفَجَّ وَالْمُسْتَفَجَّ -

مفلس - لا غری سے زمین سے چٹنے

والا -

لَفَّجَ (ن) لَفْحًا - فداناً بالسیف - نوار سے

مارنا - لَفَحَتْ (ن) لَفْحًا وَلَفْحَانًا

النار والسموم بحرہ - فداناً - آگ یا باد

سموم کا کسی کے چہرے کو بھلس دینا - نَارَ

لَفُوحٌ دَلَّخٌ - جدانے دالی آگ - ج -

لَوَافِح -

الْلَفَاح - ایک قسم کا پودا ہے -

لَفَحَهُ (ن) لَفْحًا - فی او علی راسہ -

سر پر مارنا -

لَفَظَ - (رض) وَلَفَظَ (س) لَفْظًا - الشئ و بالشئ

عن فہ - منہ سے پھینکنا - صفت مفعولی -

(لفیظ و ملفوظ) البحر دابتہ - سمندر کا جانور

کو کنارہ پر پھینک دینا - فلان نفسه او

عصبہ مرنا - "جاء وقد لفظ لجامہ" یعنی وہ

پیاس اور تھکن سے چور ہو کر آیا - (لفظ)

بالکلام - بولنا -

الْلَفْظ - بولے جانے والے کلمات - کلام -

ج - الفاظ -

الْلَفْظَة - کلمہ - ج - لفظات -

الْأَلْفِظَة - مونث الالف - سمندر - چکی

دینا -

الْفَظَة - سمندر -

الْلَفَاط - پھینکا ہوا - اللفاظ - سبزی -

الْفَقَاةُ - منہ سے پھینکا ہوا۔ دسترخوان سے جھاڑا ہوا۔ کسی چیز کا تھوڑا سا بقیہ۔

ج - لَقَاظ و لَقَاظَات -

الْمَقْبِط - پھینکی ہوئی چیز۔

لَقَّحَ (ن) لَقَّحًا - الشَّيْبُ رَأْسُهُ بِالْوَلَدِ کی سفیدی کا پورے سر کو ڈھانک لینا۔ لَقَّعَتِ الْمَارَةَ - اس کو آگ کا شعلہ پہنچ گیا۔

لَقَّعَ - بمعنی لفع - الغلام جوان کو بغل گیر کرنا۔ فِدَانٌ بہت کھانا۔

تَلَقَّحَ - سفید سر ہونا۔ تَلَقَّعَتِ الْمَارَةَ - آگ کا بھڑکن۔ الْحَرْبُ بِالْشَّرِّ سَبَّحَ ہی کو گھیر لینا۔ الْمَالُ مَوَاشِي كُوجِرَ لِنَے سے لَفَّحَ پہننا۔ الْقَوْمُ دُشْمَن کی فوج کو گھیر لینا اور سب کو موت کے گھاٹ اتارنا۔

وَالْتَفَّحَ - الرَّجُلُ بِالشُّوْبِ وَالشَّجَرِ بِالْوَرَقِ آدمی کا کپڑے سے اور درخت کا پتوں سے ڈھکن۔ التفتحت الارض - زمین کا سبزہ سے ڈھک جانا۔

الْتَفَّحَ - لَوْنُهُ رنگ بدلنا۔ اللفاق - چادر یا کپل۔ اوشنی کے اگلے تھن۔

الْفَقَاةُ وَالْفَقِيعة - کرتے کا پیوند۔ الْمَقْبِعة - چادر۔ کپل وغیرہ۔

لَقَّقَ (ض) لَقَّقًا - الشُّوْبَ کپڑے کو دو ہرا کر کے سینا۔ الامر کام طلب کرنا اور نہ پانا۔ الصنف - شکرے کا شکار پر چھوڑا جانا مگر شکار نہ کرنا۔

لَقَّقَ - الحدیث - کلام کو جھوٹ سے مزین کرنا۔ الرجل - کام طلب کرنا اور نہ پانا۔

الْمَقْبِطِينَ - دونوں سرے ملا کر سینا۔ تَلَقَّقَ بِہ - جا بلنا۔ ما بنیم - درمیان کے معاملات کا درست ہونا۔

تَلَاَقَقَ - الْقَوْمُ - معاملات کا درست ہونا۔

الْفَق - چادر کا ایک پاٹ۔ "ہما لفقان" وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔

الْمَقَادِقُ مقصد میں ناکام۔

الْفَقَاق - دوسرا جوڑے ہوئے کپڑے۔ ایک دوسرے سے جوڑ کر دیے ہوئے کپڑے۔ ان میں ہر ایک کو لفاق کہتے ہیں۔

الْمَقْبِيعُ وَالْمَقْبِيعَات - بے وقوف۔

الْمَقْبِيعُ - بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔

لَقَّفَ - گفتگو میں درماندہ ہونا۔ ہلکا ہونا خوب اچھی طرح کھانا۔ فی ثوبہ کپڑے میں لپٹنا۔ تَلَفَّفَ بَثْوَبہ - کپڑے میں لپٹنا۔ التَّلَفُّفُ وَالْمَقْلَافُ ضعیف۔ کمزور۔ رَوِّ الْمَقْلَفِ کلام میں عاجز و درماندہ۔

لَقَمَتِ (ض) لَقَمًا وَتَلَقَّمَتِ وَتَلَقَّمَتْ المرأة - عورت کا چہرہ پر نقاب ڈالنا۔ تَلَقَّمْ بَعِثَہ دوسرے سے ڈھانا باندھنا۔ لَقَمَ مَضْبُوط باندھنا۔

لَقَّا يَدْفُو الْقَوَا - فِدَانًا حَقَّہ کسی نے حق کو کم کرنا۔ اللحم عَنِ الْعَظْمِ گوشت کو ہڈی پر سے چھیلنا۔

الْقَاءُ (ض) الْقَاءُ پانا۔ تَلَاَقَى - الامسار تدارک کرنا۔

الْقِيعة - گوشت کا ٹکڑا۔ ج - لَقَايَا - الْقَاءُ - مٹی۔ خیس۔ خفیر۔

الْتَلَا فِي مِم - خون کا بدلہ لینا۔ لَقَّى (ن) لَقَاً - آنکھ پر ہاتھ سے مارنا صفت دلاق ج - لَقَقَة -

الْتَلَقَ بِزَمِين کی پھٹن و درڑ۔ اونچی زمین بہت باتونی۔ تنگ اور لمبی زمین۔

الْمَقْبِعة - ج - لاق - تنگ منہ کے گڑھے یا کھائیاں۔ رجُلٌ لَقَاقٌ وَبَقَاقٌ - بہت باتونی آدمی۔

لَقَبَ - فِدَانًا بَكْرًا - لقب رکھنا۔ تَلَقَّبَ -

لقب پانا۔

تَلَاَقَبَ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کو بُرے لقب سے گالی دینا۔

الْمَقْب - اصلی نام کے علاوہ دوسرا نام۔ ج - القاب -

لَقَّحَ (ن) لَقَّحًا - النخل - زکھور کا شکوفہ مادہ کھجور میں ڈالنا۔ پیوند لگانا۔ قوم لگانا۔ لَقَّحَتْ (س) لَقَّحًا وَلَقَّحًا وَلَقَّحًا -

الناقة و محو ہوا۔ اوشنی وغیرہ کا حاملہ ہونا۔ صفت لائق و لَقَّوْحُ (لَقَّحًا) لَقَّوْحُ کا سکون کے بعد بھڑکن۔ المرأة اداختہ حاملہ ہونا۔

الْقَح - الخلة پیوند لگانا۔ زکھور کا شکوفہ مادہ کھجور میں ڈالنا۔ الفعل الناقة حاملہ کرنا۔ کھین کرنا۔ صفت مفعولی (ملقوحتہ) ج - ملاق - الْقَح بَنِيم شَرًّا - فساد ڈالنا۔

تَلَقَّحَتْ - الناقة - اوشنی کا بطا بہر حاملہ معلوم ہونا۔ اور درحقیقت نہ ہونا۔ "تَلَقَّحَ زَيْدٌ عَلٰی" زید نے میری طرف ایسے گناہ کی نسبت کی جس سے میں بری تھا۔ بدلاہ گفتگو میں ہاتھوں سے اشارہ کرنا۔

التَلَقَّحَتْ - الاثنی - باردار ہونا۔ حاملہ ہونا۔ اُسْتَلَقَّحَ - باردار ہونے کے قریب ہونا۔

الْمَقَاجُ - ج لَقَّوْحُ - مادہ منویہ الْقَاج مِم۔ زکھور کا شکوفہ جو مادہ کھجور میں ڈالا جائے۔

الْقَح - مِم۔ حاملہ ہونا۔ الْقَحَّة - دودھ پلانے والی دایہ۔ قحاب - کوا۔ ج - لَقَّحَ وَلَقَّاح -

اللقیحة - نفس۔ ج - لَقَّاح - الْقَحَّة وَالْقَحَّة - ج - لَقَّحَ وَلَقَّاح - وَالْقَح - ج - لَقَّاح - لَقَّاحُ -

بہت دودھ دینے والی اوشنی۔ الدَّقِخ - ریح لَرِخ - درختوں کو بار دار کرنے والی ہوا۔ حاملہ ہونے والی اوشنی۔ ج -



لَوَقَّحَ -

الْمَوَقَّحُ وَالْمَلَّاقِحُ - درختوں کو بار بار کرنے والی ہوا میں بارش لانے والی ہوا میں - حاملہ مادا میں - المَوَاقِح - گورھے -

الْمَلَّاقِحُ - حاملہ کرنے والے - واحد - (ملقح) حاملہ عورتیں - واحد - (ملقحة)

الْمَلَّقَحُ - مفع - آزمودہ -

الْمَلَّاقِحُ - بایں - واحد (ملقوۃ) جنین نر کا گاہن کرنے کا مادہ -

لَقَّحَ (ر) لَقَّحًا - مکاریا -

لَقَّحَهُ (ر) لَقَّحًا - عیب لگانا - صفت (لاقس)

لَقَّحَتْ (ر) لَقَّحًا - نفس فلاں الی الشئ شوق کرنا - مائل ہونا - لَقَّحَهُ عَنِ الشئ - دل منڈانا - صفت نفس

لَقَّحَ (ر) لَقَّحًا - سمجھنا - صفت لَقَّحَ لَقَّحًا لِقَاسًا وَمُلَاقِصَةً - القوم - ایک دوسرے کو برے لقب دینا -

تَلَقَّحَتْ - نفس من الشئ تنگ ہونا - تَلَقَّحَتْ - القوم - ایک دوسرے کو گالی دینا -

الْمَلَّقِسُ اللَّاقِسُ - خارش - کھیل - المَلَّقِسُ - لوگوں سے تمسخر کرنے والا -

روی لقب دینے والا - بدخلق - ہر چیز کا حریف والاچی کسی بات پر نہ سمجھنے والا -

لَقَّصَ (ر) لَقَّصًا - الشئ بجلدہ - گرمی سے جلدانا -

لَقَّصَ (ر) لَقَّصًا - الشئ تنگ ہونا - نقصت نفسہ دل منڈانا -

التَّقْصُ - الشئ نے لینا - پکڑ لینا - اللقص - تنگ - باتونی - شرارت میں جلدی کرنے والا -

لَقَّطَ (ر) لَقَّطًا - الشئ زمین سے اٹھالینا

الحد من الكتب - ادھر ادھر سے جمع کرنا - التلب - پیوند لگانا - الطائر الحب - پرندہ کا پرچ سے دانہ چکنا - صفت - رلاقط ولفط

لَقَّطَهُ لَقَّاطًا وَمُلَاقِطَةً - مقابل ہونا - التَّقْطُ - الشئ - اتفاقیہ معلوم ہونا - الشئ زمین سے اٹھانا - اللقاط - جمع کرنا - (تلقط) الشئ - ادھر ادھر سے جمع کرنا -

اللقط - اٹھائی ہوئی چیز - واحد (لقط) لقط المعدن - کان کی کچی دھات کے ٹکڑے - فی المكان لقط للداشنة -

مکان میں جانوروں کے لیے تھوڑا سا چارہ ہے -

اللقطه واللقطة - جو چیز زمین پر گری ہوئی دستیاب ہو - اور اس کا مالک معلوم نہ ہو -

اللقاط واللقاط - فصل کاٹنے والے سے گرے ہوئے خوشے جو بعد میں چنے جاتے ہیں - زمین پر پڑی ہوئی دستیاب ہونے والی چیز -

اللقاط - گرے خوشوں کو جمع کرنا - لقیبتہ لقاط - میں اس سے منہ در منہ ملا -

اللقاطة - گرے ہوئے خوشے - گرمی ہوئی بے قیمت چیز - ج القاط -

اللاقط - نا - گرے ہوئے خوشے چنے والا آزاد کردہ غلام -

اللاقطة - مونث - اللاقط - لکل ساقطة لاقطة - یعنی ہر بات جو زبان سے نکلے اس کا سننے والا ہے - یہ گویا احتیاط سے بولنے پر نصیحت ہے -

اللاقطة - بیچ ونا کارہ مردی عورت لاقطة المحطی - پرندہ کا پوٹا -

سنگ دانہ - اللقاط واللقاطة - بہت اٹھانے والا -

اللقبط - اٹھایا ہوا - باندھنا -

اللقبط - الشئ - اچکنے کے لیے بھینکنا -

الطعام - نگوانا - لقف الطعام -

اللقبط - الشئ - اچکنے کے لیے بھینکنا -

اللقبط - الشئ - اچکنے کے لیے بھینکنا -

اللقبطة - مونث اللقبط - رذیل مرد یا عورت - ج لقاط کتنے ہیں - راجل لقیطی خلیطی - چٹلی زری کے لیے ادھر ادھر سے خبریں پھرنے والا -

اللقاط - ادارہ او بائش لوگ - تھوڑے منفرد لوگ -

اللقاط - مطلب - دھات کی کان - یا لقطان - اے اقم - مونث - لقطانہ -

الملقط - چٹا - دست پناہ - ج - لقاط المقاط - قلم نقش کرنے کا آلہ -

مکڑی - ج - ملا قبط - الملقوط - مفع - لومو لود پھینکا ہوا بچہ -

ج - ملا قبط - لقع (ر) لقعًا - الشئ بھینکنا - فلان بھینکنا - لقعہ لگانا - لقعہ الحیة - سانپ کا ڈسنا - لقع فلان - عیب لگانا - لقعہ بالکلام - غالب ہونا -

لقع (ر) لقعًا - تیزی سے گزر جانا - لقعًا عیب دار ہونا -

تلقع - بالکلام - قبول گوئی کرنا - التلق - لونہ رنگ منبیر ہونا -

المقاع والمقاع - کاٹنے والی سبز رنگ کی مکھی - واحد (لقاعہ - وقاعہ -)

المقعة والمقاعة والمقاع والمقاع - بے وقوف لوگوں کے عیوب نکالنے والا - لوگوں کو برے لقب دینے والا - بہت باتونی -

امراة مقاع ومقعة - بے ہودہ عورت لقف (ر) لقفًا ولقفانًا - والتقف الشئ - چیز کو جلدی سے لینا -

لقف (ر) لقفًا - حوض کا اندر سے گر کر وسیع ہونا - صفت (لقف) الحائط گرنا -

لقفہ - الشئ - اچکنے کے لیے بھینکنا -

الطعام - نگوانا - لقف الطعام -

اللقبط - الشئ - اچکنے کے لیے بھینکنا -

اللقبط - الشئ - اچکنے کے لیے بھینکنا -

اللقبط - الشئ - اچکنے کے لیے بھینکنا -

نکلنا۔ الفرس۔ اگلی دو ٹانگوں سے زور سے روندنا۔

تَلَقَّفَ الشَّيْءَ جلدی سے لے لینا۔
الطعام۔ نکلنا۔ الحائط والحوض دیوار یا حوض کا کرنا۔

اللقف۔ ہم۔ کنوئیں یا حوض کا کنارہ۔
ج۔ القاف۔

المقافة۔ ہوشیاری۔ مہارت۔
اللقف واللقف واللقیف۔
من الرجال۔ پھر نیلا۔ دانا۔

لَقْنٌ۔ اللقلاق۔ سارس کا آواز نکالنا۔
لَقْنَتُ الحیة۔ سانپ کا زبان نکالنا۔
لَقْنٌ الشَّيْءَ چیز کو حرکت دینا۔
تَلَقَّقَ الشَّيْءَ ہلنا۔

اللقیق۔ ج۔ لقا قق واللقاق۔ سارس۔
اللقیق۔ زبان۔ اللقلاق۔ آواز شور۔
اللقققة۔ سارس کی آواز۔ حرکت و اضطراب والی آواز۔ حروف لقلقة۔
ب۔ ج۔ د۔ ط۔ ق۔

لَقَمَ رَجُلٌ لَقْمًا۔ طریق وغیرہ۔ راستے کا دہانہ بند کرنا۔

لَقَمَ رَجُلٌ لَقْمًا۔ الطعام۔ کھانا جلد ہڑپ کر لینا۔

لَقْمَةً وَاللَقْمَةَ۔ الطعام۔ لقمہ لقمہ کھانا۔
اُس نے اُس کو چپ اور خاموش کر دیا۔
تَلَقَّمَ الشَّيْءَ جلدی سے کھانا۔ الماد فی بطنہ پانی کا پیٹ میں بولنا۔

التَّقَمَ۔ الطعام۔ نکلنا۔
اللَقْمَ وَاللَقْمَ۔ راستے کا بڑا حصہ۔
راستے کا وسط۔

اللُقْمَةُ۔ لُقْمَةٌ۔ ج۔ لُقْمٌ۔ اللَقِيمُ۔
لُقْمٌ۔

التَّلَقُّمُ والتَّلَقُّمَةُ والتَّلَقُّمُ والتَّلَقُّمَةُ۔
والتَّلَقُّمَةُ۔ بڑے بڑے لقمے نکلنے والا۔ رکیہ متقمة بہت پانی والا

کنواں۔
لَقْنٌ رُكٌّ لَقْنَتُهُ۔ سمجھ دار و عقلمند ہونا۔

لَقْنٌ (س) لَقْنًا وَلَقْنَةً وَلَقْنَةً۔
وَلَقْنَانِيَّةٌ وَتَلَقْنٌ۔ الکلام من فلان کلام سمجھنا۔۔

لَقْنَةُ الکلام۔ کلام سمجھنا۔ الکلام جلدی سے حفظ کر لینا۔

اللقن۔ ستون۔ کنارہ۔
المقانة والمقانية۔ تیز فہمی۔

اللقین۔ زد و دم۔ یوتشت لَقْنٌ۔ وہ سمجھ دار سے اور سنی ہوئی بات کو جلد یاد کر لیتا ہے۔

اللقن۔ لکن۔ تانبے یا پتیل کا تھال۔
اللقاق۔ پیٹ کا زیریں حصہ۔

لَقًا يَلْقَوُا لِقْوًا۔ لقوے میں مبتلا کرنا۔
لَقِي لِقْوًا۔ لقوے میں مبتلا ہونا۔

المقوۃ۔ منہ کے ٹپڑھا ہونے کی بیماری۔
والمقوۃ۔ مادہ غلاب۔ تیز پرواز غلاب۔ ج۔ لقاء واللقاء۔

الملقوۃ۔ لقوے میں مبتلا۔
لَقِي يَلْقَى لِقَاءً وَلِقَاءً وَلِقَابَةً

وَلِقَاءً وَلِقَابًا وَلِقِيَانًا وَلِقِيَانَةً

وَلِقِيًا وَلِقِيًا وَلِقِيَةً وَلِقِيَةً

لَقِي۔ فلانا۔ استقبال کرنا۔ پانا۔ دیکھنا۔ ملاقات کرنا۔

لَقِي تَلَقِيَةً۔ فلانا الشَّيْءَ۔ کوئی چیز کسی کی طرف پھینکنا۔

لَقِي لِقَاءً وَمُلَاقَاةً۔ الرجل۔ آئے سامنے آنا۔ ہلنا۔ ملاقات کرنا۔

اللقى۔ الشَّيْءَ الی الارض۔ زمین پر پھینکنا۔ الیہ القول۔ بات پہنچانا۔
علیہ القول۔ بات لکھوانا۔ ملا کرنا۔
پہنچانا۔ فیہ الشَّيْءَ رکھنا۔ عنہ الشَّيْءَ ڈالنا۔
الیہ السمع۔ کان لگانا۔ الیہ خیبر۔ نیک

سلوک کرنا۔ الیہ بالاً۔ پروا کرنا۔
القیۃ الیہ المودة والمودة میں نے اس سے محبت کی۔

تَلَقَّى الشَّيْءَ۔ ہلنا۔ استقبال کرنا۔ الشَّيْءَ منہ سے لکھنا۔ تَلَقَّتِ المرأة۔ عورت کا حاملہ ہونا۔ صفت۔ (متلقی)

التلقي۔ الشَّيْءَ ہلنا (روائی) القوم بعض کا بعض سے ملنا۔ تلاقوا۔ آپس میں جھگڑا کرنا۔

استلحق۔ علی لقاء۔ چت لینا۔
اللقى۔ چھٹکی ہوئی ردی چیز۔ ج۔ القاء۔

اللقیۃ۔ ملاقات پانا۔ ج۔ لقی۔
اللقى۔ پرندہ۔ درد۔ المقیاء۔ لقاء کا اسم۔ ملاقات کی جگہ۔

اللقاء۔ لقاء کا اسم۔ ملاقات کی جگہ۔
جلس لقاء۔ وہ اس کے مقابل بیٹھا۔

فعل الامر من لقاء لقا۔ اس نے اس کام کو خود بخود کیا۔ بغیر اس کے کہ کسی نے اس کو مجبور کیا ہو۔

اللقاء۔ راستہ کا بیچ۔
اللقى۔ بھلائی یا بُرائی کے لیے ملنے والا۔

اس کا اکثر استعمال بُرائی کے لیے ہے۔
سامنے آنے والا۔ موث لقیۃ۔

اللقاء۔ خبر و شر کے لیے ملاقات کرنے والا۔
شر۔ لیے کثیر الاستعمال ہے۔

اللقیۃ۔ چستان۔ پہلی۔ ج۔ الاقی۔
اللاقی۔ سختیاں۔

الملقی والملقی۔ ملنے کی جگہ۔
الملاقی۔ الملقی کی جمع۔ ملاقی الاجفان۔

پلوں کے ملنے کی جگہ۔
التلاقی۔ مع۔ یوم التلاقی۔ قیامت کا دن۔

الملاقی۔ فاء اوزان شعر میں ایک بحر کا نام۔

الملقی۔ چیز کے ڈالنے کی جگہ۔ لقاء فلان



ملقی الرجال - فلاں کے گھر یا صحن کی دوا
کے اترنے کی جگہ ہے۔ یعنی وہ بڑا
مہمان نواز ہے۔

الملقی والملقی والملقى - خبر و شر کے لیے
ملاقات کر لینے والا۔

الملقی مصائب سے آزمایا ہوا۔

لکھ (ن) لکھا - گدی پر مکا مارنا۔ دبانہ۔

پھینچنا۔ لکھ لکھ - گوشت کو ہڈی سے

جد اکرتا۔ الشیء - ملانا۔ الجلد - پڑا رکھنا۔

التلکاء الورد - گھاٹ پر لوگوں کا بھیڑ کرنا۔

فی کلامہ غلطی کرنا۔ فی محنت - دیر لگانا۔

اللیکاک - بھیڑ۔ سخت گوشت والی اونٹنی۔

ج۔ لکھ لکھ -

اللائق - مع۔ گوشت۔ ایک سرخ رنگ جس

سے کھال رنگتے ہیں۔ ایک لاکھ۔ ج۔

الکاک والک -

اللائق - سخت و پُر گوشت۔ اللکة -

شدت۔ مکا۔

اللائق - من الجود۔ لک سے رنگی ہوئی

کھال۔

اللیکک - گنجان لشکر۔ سخت گوشت۔

مولے سخت گوشت والا۔ تار لک -

ایک کمزور درخت۔ ج۔ لکاک -

الملکک - مضبوط اور سخت گوشت والا۔

لکھا (ن) لکھا - بالسطو فلانا کسی کو کورے

سے مارنا۔ فلانا - بچھاڑنا۔ بہ الارض

زمین پر پڑیک دینا۔ الرجل - کسی کو اس

کا پورا حق دینا۔

لکھی (ن) لکھا - بالکان - اقامت کرنا۔

لفدان - لازم ہونا۔

تَلَكَا تَلَكَا - علیہ - عذر کرنا۔ بہانہ کرنا

عن الامر - دیر لگانا۔

لکھ (ن) لکھا - البعیر - اونٹ کا منہ

پر چھنی والا ہونا۔ الوسخ علیہ وہ میل کا

جم جانا۔

اللکک - مع۔ دودھ کے برتن کے کناروں پر

جما ہوا میل۔ اونٹ کے منہ کی پھسیاں

ناظر لکھ - موٹی اونٹنی۔

اللکاک - اونٹ کے منہ پر کی پھسیاں -

چونے کے سفید پتے والے پتھر۔

اللکاک - چوننا بنانے والا۔

لکھ (ن) لکھا - مکا مارنا۔

لکھا (ن) لکھا - ہاتھ سے مارنا۔

ہٹانا۔

لکھا (ن) لکھا - الوسخ علی فلان و

بہ - لازم ہونا۔ چھٹنا۔

لکھا - الغل - طوق سے لگے رہنا۔

تقیہ - بیر سے بخوبی نہ چل سکتا۔

فلانا - چھٹنا - لازم ہونا۔

تَلَكَا - فلان - موٹے گوشت والا ہونا۔

الشیء - چھٹنا۔ بہ اوعلیہ الوسخ - میل کا

جم جانا۔ فلانا - گردن میں ہاتھ ڈالنا۔

اللکک - بخیل۔ بدخلق۔ الا لکک - کینہ

قوم سے ملا ہوا۔

لکھا (ن) لکھا - مکا مارنا۔ لکھا -

ایک دوسرے کو کھنے سے مارنا۔

تَلَاکَا - ایک دوسرے کو کھنے سے مارنا۔

اللیکاز - چیترا۔ جو دھڑے کے سوراخ میں

اس کو تنگ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔

اللیکک - بخیل۔ الملکک - ذیل جس کو دروازہ

پر دھکے دے دیئے جاتیں۔

لکھ (ن) لکھا - مکا مارنا۔

لکھ (ن) لکھا - العقرب - بھوکا ڈنکا۔

لکھ الرجل - سخت دست کھنا۔

الولد - دودھ چھوٹنے کے قریب ہونا۔

ترککہ بلک - میں نے اس کو کھانا پیتا

چھوڑا۔

لکھ (ن) لکھا - لکھا - لکھا - لکھا -

لکھ (ن) لکھا - لکھا - لکھا - لکھا -

لکھ (ن) لکھا - لکھا - لکھا - لکھا -

لکھ (ن) لکھا - لکھا - لکھا - لکھا -

لکھ (ن) لکھا - لکھا - لکھا - لکھا -

لکھ (ن) لکھا - لکھا - لکھا - لکھا -

اللکک - ایک خاردار پودہ۔ ج۔ لکاک۔

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -

اللکک - لکھ - لکھ - لکھ -



لَمَّا - ابھی تک نہیں۔ صرف۔ بوجہ۔ چونکہ
لَمَّا جَاءَ فِي الْوُجُوهِ - جب وہ میرے
پاس آیا تو میں نے اس کی عزت کی۔
إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَدُوٌّ خَافُفٌ -
نہیں ہے کوئی جان مگر اس پر مکران
ہے۔

لَمَّا - کیوں۔ کس لیے۔
لَمَّا كَانَ لَمَّا - جمع کرنا۔ لَمَّا اللَّهُ شَعْنَهُ
اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی پراگندگی
کی اصلاح فرماتے۔

لَمَّا - بغاوت کسی کے پاس آنا۔
لَمَّا - فدان - کسی کو کچھ جنون کا حق ہونا۔
صفت (مَلْمُوم)

لَمَّا - چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرنا۔
الغلام - لڑکے کا بولوغ کے قریب پہنچنا۔
صفت (مَلْمُوم) المتأخض - پختگی کے
قریب ہونا۔ بہ مرض - مرض لاحق ہونا۔
بالقوم وعلی القوم - اگر اتر پڑنا۔ بالعمی
معنی جان لینا۔ سمجھ لینا۔ بالذنب - گناہ
کرنا۔ الشئ قریب ہونا۔ بالامر - گمراہی
سے نہ دیکھنا۔ بالطعام - کھانے میں
اسراف نہ کرنا۔

الْتَمَّ - فدان - کسی کی زیارت کرنا۔ بالقوم
قوم کے پاس آکر اترنا۔

الْلَامَةُ - نظربہ ہر خوف کی چیز کہتے ہیں
اعیذہ من کل ہامیہ لایستہ - ہر بزدل
لما - وہ ہم سے کبھی کبھی عداوت کرتا
ہے۔

الْلَمَّة - مع بے شمار جماعت۔ اللعم -
مقوڑا ساجنون۔ گناہ کے قریب ہونا۔
چھوٹے گناہ۔

الْلَمَّة - سختی۔ مجبور۔ زمانہ۔
الْلَمَّة - ہم سفر۔ مونس۔ عورت کی جماعت
(واحد وجمع)

الْلَمَّة - بالوں کی رنگت جو ان کی لکڑی سے

سے بڑھی ہوئی ہو۔ پراگندہ بال۔
لَمَّ - ولیم۔

الْمَلَمَّة - سخت۔ اپنے قبیلہ کے لوگوں کو
جمع کرنے والا۔ ضروری معاملہ۔ "رجل
ملمم" - لوگوں کے امور کی اصلاح
کرنے والا اور ان کے ساتھ بھلائی سے
پیش آنے والا۔

الْمَلَمَّة - سخت حادثہ و مصیبت۔ پکٹنے
کے قریب کھجور۔

الْمَلْمُوم - جمع کیا ہوا۔ مجنون۔ گول۔

لَمَّا وَلَمَّا عَلَيَّهِ (د) لَمَّا - ہاتھ ڈالنا

سب لے لینا۔ دیکھنا۔ بہ مشتعل ہونا۔

الْمَلْمُوم - اللص علی الشئ و بالشئ - چوری سے

لے لینا۔ خفیہ لے لینا۔ علی حقہ - حق سے

انکار کرنا۔ المات الدواب المکان -

جانوروں نے مکان کو خالی چھوڑ دیا۔

علی الشئ - مشتعل ہونا۔ بما فی الجفنة -

اپنے لیے خاص کر لینا۔

تَلَمَّاتٌ تَلَمَّوْا - الارض بر وعلیہ - گھیر لینا۔

تَلَمَّاتٌ تَلَمَّاتٌ بما فی الجفنة و التما -

اپنے لیے خاص کرنا۔ غائب آنا۔

لَمَّج (د) لَمَّجَا - الشئ منہ کے اطراف سے

کھانا۔

لَمَّج - الرجل - غذا سے پہلے کچھ کھانا۔

الْمَاج وَالْمُوج - غھوڑی خوراک۔

تَلَمَّجَتْ عنده لمباج - میں نے اس کے

پاس کچھ نہیں چکھا۔

الْمَاج وَالْمُوج - بہت کھانے والا۔

بد شکل۔

الْمُجَّة - غذا سے پہلے کا ناشتہ۔ ج۔

لَمَّج -

الْمَاج - منہ کے اطراف۔

لَمَّج (د) لَمَّجَا وَلَمَّجَا وَتَلَمَّجَا -

انجم اور برق۔ ستارہ یا بجلی کا چمکنا۔
صفت - (لامج و لموج و لامج)

لَمَّج (د) لَمَّجَا - البصر - نظر کا اٹھنا۔

الرجل الشئ والی الشئ - چوری سے

دیکھنا۔ سرسری طور پر دیکھنا۔ اسم

(المجتہ) الشئ بالبصر - نگاہ ڈالنا۔

لَمَّجَتْ - میں نے اس کو چوری سے دیکھا۔

لَمَّج - تَلَمَّجَا - الی الشئ - اشارہ کرنا۔

الْمَج - الی فدان - چوری سے دیکھنا۔

الشئ چمکانا۔ دزدیدہ نظر سے دیکھنا۔

الرجل - دکھانا۔

الْتَمَّج - نظر خفیہ سے دیکھنا۔

الْتَمَّج - بصرہ نظر باقی رہنا۔

الْمَج - مع۔ لاریٹک لجا باصرہ - میں تم کو

بات صاف صاف دکھا دوں گا۔ وعید

کے موقع پر اس کا استعمال زیادہ تر ہے۔

الْمَجَّج - سرسری نظر - لَمَّج -

الْمَج - ف - "ہولاج عظیمہ" و خود بین

ہے۔ "ہولاج عظیمہ" وہ سفید جھک

ہے۔

الْمَلْمَج - مشابہ - پہرے کی خوبیاں۔

فی فدان لمحتہ من ایبہ او طارح من ایبہ -

فدان خط و خال میں اپنے باپ کے مشابہ

ہے۔

لَمَّجَتْ (د) لَمَّجَا - لہانچہ مارنا۔ لَمَّجَتْ

مَلَمَّجَتْ وَلَمَّجَا - ایک دوسرے

کے فقیر مارنا۔

تَلَمَّجَ بکلام قبیح - بڑا کلام کرنا۔

لَمَّجَا (د) لَمَّجَا - عاجزون کرنا انکساری

کرنا۔

لَا لَمَّجَا وَ لَمَّجَات - ذلیل۔ عاجز۔

لَمَّجَا لَمَّجَا - اطراف دہن سے کھانا۔

لَمَّجَا (د) لَمَّجَا - عیب لگانا۔ آنکھ

سے اشارہ کرنا۔ ہنانا۔ مارنا۔ لَمَّجَا الشیب

بڑھاپا ظاہر کرنا۔

لَمَّجَا - کنایہ سے بات کرنا۔

تَلَمَّجَا - مانگنا۔ تَلَمَّجَا فی السیر - رفتار

میں تیزی کرنا۔

الْمَمَّا زَوَالِ الْمَمَّا - بہت نکتہ چینی کرنے

والا - عیب گیر - چغل خور۔

الْمَمَّا - سامنے غیبت کرنے والا۔

لَمَسَهُ (ن) مَنَ الْمَمَّا - چھونا۔ لَمَسَ الشَّيْءَ

طلب کرنا۔ الشَّيْءَ چیز کا چھونے کے

قابل ہونا۔ زیداً مَرَأَةً - نکاح کرنا۔

لَا مَمَّا - ایک دوسرے کو چھونا۔

الْمَمَّا فَلَانًا - ڈھونڈنے میں مدد کرنا۔

نکاح کرنا۔

لَمَسَ الشَّيْءَ بَارَ بَارًا مَلَكًا - التَّمَسَ الشَّيْءَ

من فلان طلب کرنا۔

الْمَمَّا سَتَهُ وَالْمَمَّا سَتَهُ - قریبی حاجت۔

الْمَمَّا سَتَهُ - چھونے کی قوت۔

الْمَمَّا سَتَهُ - نرم و نازک - عورت۔

الْمَمَّا سَتَهُ - منہ بولا بیٹا - عیب میں عیب

رکھنے والا۔

الْمَمَّا سَتَهُ مَمَّا - فی البیع - کپڑے کو چھو کر

بیع کو واجب جاننا۔

الْمَمَّا سَتَهُ - چھونا - چھونے کی جگہ۔

الْمَمَّا سَتَهُ - منعم چھوا ہوا - صاف اور

پالش کیا ہوا پالان۔

الْمَمَّا سَتَهُ - قوتِ لامسہ کے مدرکات

لَمَسَ (ن) لَمَسًا - التَّمَسَ - شبہہ شد

وغیرہ انگلی سے چٹانا۔ فلاناً کسی کی

چٹکی لینا۔ نقل اتارنا۔ عیب لگانا۔

منہ چڑانا۔ العصبی - بچے کا پیشاب کرنا۔

الْمَمَّا سَتَهُ - الشجر - درخت کا انگلی سے پکڑنے

کے قابل ہونا۔ المص الکرم - انگور کی

بیل کا نرم انگور والی ہونا۔

الْمَمَّا سَتَهُ - لوگوں کی غیبت کرنا۔

الْمَمَّا سَتَهُ - چھوٹا - فریبی - دھوکے باز۔

غیبت کرنے والا - چغلی کھانے والا۔

لَمَطَهُ (ن) لَمَطًا - بالمرح - نیزہ مارتا۔

لَمَطَ فَلَانًا - مضطرب ہونا۔

الْمَطَّ - بھٹی - میرا حق اس نے لے لیا۔

لَمَطَ (ن) لَمَطًا - کھانے پینے کے بعد زبان

کو ہونٹوں پر پھیرنا۔ دانتوں سے کھانے

کا بقیہ زبان کے ذریعے نکالنا۔ فلاناً

من حقہ - کسی کو حق میں سے کچھ دینا۔

الماء - پانی کو زبان سے چکنا۔

لَمَطَهُ - من حقہ - حق میں سے کچھ دینا۔

الْمَطَّ - ہونٹوں پر پانی ڈالنا۔ المَطَّ

على فلان غفقه ومانه - المَطَّ فلاناً -

نیزے سے حقوڑی سی ضرب لگانا۔

البعیر بذنبہ اونٹ کا دم کو رازوں کے

اندر دہانا۔ الرجل القوس - کمان پر تانت

باندھنا۔

لَمَطَ (ن) زبان کو ادھر ادھر پھیرنا۔ التَّمَطَّ

الشَّيْءَ - چیز کو جلدی سے منہ میں ڈالنا۔

الطعام - کھانا۔ بخفہ - حق مارتا۔ بالشَّيْءَ

لینا۔ البشقیہ - ہونٹوں کو ملا کر آواز

نکالنا۔

الْمَطَّ - الفرس - گھوڑے کا نیچے کے ہونٹ

پر سفید داغ والا ہونا۔

الْمَمَّا ظ - چکھنے کی چیز۔ بالمرح - اس کے

پاس چکھنے کے لیے کچھ نہیں۔

الْمَمَّا ظ - فصاحت و جہب زبانی۔

الْمَمَّا ظ - منہ میں بقیہ کھانا۔ التَّمَطَّ

گھوڑے کے نیچے کے ہونٹ میں سفیدی۔

الْمَمَّا ظ - نیچے کے ہونٹ کی سفیدی۔ یا

دونوں ہونٹوں کی سفیدی۔ دل کا سیاہ

نقطہ - گھی وغیرہ کی حقوڑی سی مقدار جو

انگلی سے اٹھائی جاسکے۔

الْمَمَّا ظ - من الخيل - نیچے کے ہونٹ میں سفیدی

رکھنے والا۔ گھوڑا۔

الْمَمَّا ظ - دوستی پر ثبات قدم نہ رہنے والا۔

مونث تِلْمَظًا -

مَلَامَظَ - الان - ہونٹوں کا ارد

گرد۔

لَمَعَ (ن) لَمَعًا وَلَمَعًا دَلْمُوعًا د

لَمَعًا دَلْمُوعًا - البرق وغیرہ۔ بجلی

وغیرہ کا چمکنا۔ ضرب الناقہ - فتن کا

دودھ اتونگے وقت رہ گئیں ہونا۔ فلاناً

بالشَّيْءَ - لے جانا۔ بیدہ او شوبہ او

بسیفہ اشارہ کرنا۔ الطائر بجنا چیر پرنہ

کا بانہ پھر پھڑانا۔ فلان الباب دروازے

سے کھینا۔

المعیت - حشاشہ بد نہا۔ بکری کا دم اٹھانا۔

صفت لَمَعًا (ن) الانش - مادہ کے

پیٹ میں بچہ کا حرکت کرنا۔ فلان بالشَّيْءَ

وعلیہ - چھیٹا مار کر لے جانا۔ المعیت

البلاد - ملک کا خشک گھاس والا ہونا۔

یا کثرت سے گھاس والا ہونا۔

المع الى فلان شوبہ - کپڑے سے اشارہ

کرنا۔ الطائر بجنا چیر پرنہ کا بازو

پھر پھڑانا۔

لَمَعَ - التلج - کپڑے کو مختلف رنگوں کا

لینا۔

لَمَعَ الشَّيْءَ والتلج - چھیٹا مار کر لے جانا۔

البرق وغیرہ - چمکنا۔ روشن ہونا۔ التلج

القوم لے جانا۔

التمج والتلج - لونہ رنگ کا چلا جانا۔

متبیر ہونا۔

اللامع - ج - لَمَعٌ - بربا لدار لامع۔

گھر میں کوئی نہیں۔

اللامع - مونث - لامع - بچے کی نرم

چندیا۔ ج - کوامع۔

المعیت - گھاس کا خشک حصہ۔ لوگوں کی

جماعت۔ زندگی کا حقوڑا سا گذارا۔

من الجسد - جسم کے رنگ کی چمک۔

جسم کا وہ حصہ جو نہایت یا دونوں خشک

رہ جائے۔ اصل رنگ سے مختلف

رنگ۔ ج - لَمَعٌ ولماع۔

اللماع - عقاب۔ سراب والا بیابان۔



بچے کی نرم و نازک چندیا۔
الْمُؤَوَّع - چکنے والا - عقاب - نیز چھینے

والا۔
الْأَلْمَعَجِي - ذکی - نیز ذہن آدمی -
الْأَلْمَعِيَّة - ذکاوت -

الْتَمِيع - فی النجیل وغیرہا - گھوڑے وغیرہ
تھے جسم پر اس کے اصلی رنگ کے مخالفت
دارخ - ج - تَلَامِيع -

مَلَمَعًا - الطائر - پرندے کے بازو۔
الْمَلَمَع - من النجیل وغیرہا - اصلی رنگ سے
مخالفت دارخ رکھنے والا گھوڑا وغیرہ۔
أَرْضٌ مَلْمَعَةٌ وَتَمَعَةٌ وَتَمَعَةٌ - وہ زمین
جس میں سراب چمکتا ہو۔

الْيَمِيع - بے بارش کی بجلی - سراب - کتنے
ہیں - ذَنْ اَلْكَذِبِ مِنْ بَلْعٍ - فلاں
سراب سے زیادہ جھوٹا ہے - انما یولیج
وہ جھوٹا ہے - ج - مَلَمَع - و البلیع من
السلاح - چکنے والا ہتھیار جیسے خود۔
زہرہ وغیرہ۔

الْيَمِيعِي - ذکی - نیز فہم - ہج جھوٹ ملانے
والا۔

لَمَعَدَنْ - لَمَعًا وَلَمَوًّا - لکھنا - ملانا۔
لَمَعٌ عَيْنًا - آنکھ پر چھڑ مارنا - آنکھ
کافی کرنا - لَمَعٌ أَلْبِیہ - دیکھنا - الیہ
بہرہ نظر ڈال کر دیر تک دیکھنا۔
تَلَمَّقَ - چمکنا - التَّمَاق - تھوڑی سی
چمکنے کی چیز - ما بالارض لماق - زمین میں
چراگاہ ہیں۔

لَمَقٌ - الطريق - راستے کا پیوچ - الْيَمَق -
ردنی دار قبا۔

لَمَكَ ذَا الْمَمَا - العین - آنا نرم گوندھنا
تَلَمَّكَ - البعیر - اونٹ کا جبروں کو ہلا ہلا
کر کھانا۔

الْمَمَاك - چمکنے کی چیز صرف نفی میں مستعمل
ہے۔

الْمَمَاك وَالْمَمَاك وَالْمَمَاك - سُرمہ۔
الْمَمِيك - سرگین آنکھوں والا۔

الْيَمِيك - قوی - جوان - یہ مردوں کے ساتھ
خاص ہے۔

لَمَلَمَ الْحَجَر - پتھر کو گول کرنا۔ الشیء یُرْبِع
کرنا۔

تَلَمَلَمَ گول ہونا - جمع ہونا۔ التَلَمَلَم
بہت بڑا اکٹھا کرنا۔

الْمَلْمُوم - جماعت - مَلَمَلَم - گھٹینے
بدن کا۔

الْمَلْمَلَمَة - مونث - مَلَمَلَم - ہاتھی کی سونڈ۔
لَمَّا يَلْمُو الْمَوَّا - الشیء - سب لے لینا۔

الْمَلَمَة - جماعت - تین سے دس تک کی
تعداد کے ساتھ - ہم عمر - ہم شکل سنو نہ
ج - لَمَات -

لَمَى يَلْمِي لَمِيًا وَلَمَى يَلْمِي لَمَى - الغمام
رک کے کاسیہ بنو نول والا ہونا - صفت
(الْمَى) مونث لَمِيَاء -

الْمَى الْمَاءُ الْمَلْمَلَم - چرانا - تَلَمَّت
الارض بر علیہ - زمین اس پر حاوی
ہو گئی - الْمَلَمَى الْمَلَمَاء - لونہ - رنگ
متغیر ہونا۔

الْمَلَمَى - ہونٹ کے اندر فی حصہ میں سیاہی
یا گندی رنگ۔

الْمَلَمَى - سیاہ یا گندی رنگ کا ہونٹ رکھنے
والا - گھنا سب - گھنے سایے کا درخت۔
سرخ المی - مضبوط گندم گون نیزہ - مونث
لمباء - ج - لَمَى - لَمَمَ لَمَاءُ كَمْ كُوشَت
یا کم خون والا مسوڑھا۔

لَن - حرف ناصب فعل مضارع ہے۔ اور
نفی استقبال کو مفید ہے - جیسے لَن

افعل المنکر باقیت - جب تک زندہ
رہوں گا - بدی ہرگز نہیں کروں گا - کبھی
دعا کے لیے بھی آتا ہے - جیسے لَن تَزَالُوا
نَبِيُّ الْفَقِير - ہمیشہ فقیر کے بھادینے رہو۔

لَمَدَنْ - لَمَدًا - الشیء - اچھے عمدہ شعر کرنا
لَمَعَتْ (ن) لَمَعًا وَلَمَعًا وَلَمَعِيًا و
لَمَعًا وَلَمَعِيًا - النار آگ کا بھڑکن۔
لَمَعَتْ (س) لَمَعًا وَلَمَعِيًا - الرجل پیاسا
ہونا - صفت (لَمَان)

لَمَعَتِ النَّارُ فَتَلَمَعَتْ ذَا لَمَعِيًا -
فَالْتَمَعَتْ - آگ بھڑکانا - یہاں تک
کہ آگ کا بھڑک اٹھنا - التَمَبَ عَلَيْهِ -
غضبناک ہونا اور غصہ سے جلنا - فُلَانٌ
يَتَلَمَّبُ دِيْتَمَبَ جَوْعًا - فلاں بھوک سے
بھڑک رہا ہے۔

الْتَمَبَتِ النَّارُ - آگ بھڑکانا - الْفَرْسُ
گھوڑے کے دوڑ کر غبار اٹھانا - الْبَرْقُ
بجلی کا مسلسل گوندنا۔

الْتَمَب - فی الکلام - جلدی سے کہہ ڈالنا۔
الْتَمَبُ - پیاس -

الْتَمَبَاتَة - ایک قسم کی کبلی جس میں پتھر
رکھ کر بوجھ یا بودج کی ایک طرف کو
نیچا کیا جاتا ہے۔

الْتَمَب - دو پہاڑوں کے درمیان کی کشادگی
یا پہاڑ کی دراڑ - ج - التَمَب - ولہو ب د
لَمَب و لَمَبَاتَة -

الْتَمَبَة - آگ کا شعلہ - بلند غبار۔
الْتَمَبَان - سخت گرمی - گرم دن -
پیاس -

الْتَمَبَة - پیاس - خالص سفیدی -
الْتَمَب - ہم آگ کی گرمی - الْاَلْتَمَب
گھوڑے کی شدت کی نیزی کر زمین سے
غبار اٹھالے اور گھر سے آگ نکلے۔

الْمَلْمَب - نہایت - خوبصورت۔
الْمَلْمَب - من الثیاب - کم سرخی والا کپڑا۔

الْمَلْمَبَات - خداوندی - علم الما ہوت -
ذات وصفات خداوندی کے متعلق
عقاید کا علم۔

الْمَلْمَبَات - ذات وصفات کے متعلق



عقاید کا علم۔

لَهَيْتَ وَلَهَيْتَ (س) لَهَيْتَ وَلَهَيْتَ -

الکلب وغیرہ پیاس یا تنگن کی وجہ سے کتے وغیرہ کا مایہ کر زبان ڈال دینا۔

لَهَيْتَ (س) لَهَيْتَ وَلَهَيْتَ وَلَهَيْتَ -

الرجل - پیاسا ہونا - صفت (لسان)

موت - لہنی۔

الْتَهَيْتَ - بمعنی لہیت۔

الْلَهَاتِ - یہ - پیاس کی گرجی - موت کی سختی۔

الْلَهْنَةُ - تنگن - پیاس۔

لِهَجَّ (س) لِهَجَّ بِالْشَيْءِ شَيْئَةً هَوْنًا -

صفت - لہج - (لہج) الفقیل -

جانور کے بچے کا مال کے تنگن کو

چوسنا - الفقیل یا تمہ سال کے روڈ

بچے کا عادی ہونا - صفت (لہج)

لِهَجَّ - القوم - ناشتہ کھانا۔

الرهج - الرجل - دودھ پینے کے عادی بچوں

والا ہونا۔ فلاناً بالشیء شقیفۃ ینا تا۔

الفقیل بچے کے منہ میں گڑی باندھنا

تاکہ دودھ نہ پی سکے۔

الرہج - بالشیء شقیفۃ ہونا۔

الْمَاجِ الْهَيْجَاجَا - الشیء خَلَطَ مِلْطَ

ہونا۔ الما جت عینہ آنکھوں کا نیند

سے بند ہونا۔ او نگھ آنا۔ الما ج البن

مگر پوری طرح نہ جینا۔

الْمَهْجَتَ - زبان بالزوک زبان - ماری

زبان۔

الْمَهْجَتَ ناشتہ۔

الْمَهْجَ - مفع - اونگھنے والا۔ سونے والا

کام سے عاجز۔

لَهْوَجَ - الشیء ملاناً - الامر - پختگی کے کام

کرنا۔ الشواء نیم پختہ رکھنا۔ شواء

ملوچ - اچھی طرح نہ پھینا ہوا۔

تَلَهْوَجَ الشیء - جلدی کرنا۔ اللحم گوشت

کو پختہ کرنا۔

تَلَهْوَجَ - بالشیء - چیز کا مشتاق ہونا۔

الطریق - راستے کا واضح نشان والا ہونا۔

الْمَهْجَمَ - کشدہ چلتا ہوا راستہ بڑا پیالہ

لَهْدَكَ (ن) لَهْدَكَ - الحمی - بوجھل کرنا دہانا۔

صفت مفعولی - ملہود و لمید - لہد وابتہ

جانور کو دبا کر دبا کرنا۔ الشیء کھانا یا

چاٹنا۔ فلاناً - ذلت کی وجہ سے سنانا

پستانوں یا مونہ مھوں کی جڑ میں مارنا

یا چبھونا۔

الْمَهْدَكَ - ظلم کرنا۔ المذہب - ذلیل کرنا۔

المذی الی الارض - بوجھ سے زمیں پر۔

طرف جھکنا۔ بفلان - ایک آدمی کو پکڑ

کر دوسرے آدمی کو اسے مارنے دینا

الْمَهْدَ بَیْکَ - المَهْدَ مَعَهُ - مانگول اور لڑوں

میں پیدا ہونے والا مرض - سخت د

ناکارہ

الْمَهْیْدَ - زیادہ بوجھ لدا ہوا یا تھکا ہوا

جانور۔ المَهْیْدَ کا ایک قسم کا نرم

حلو۔

الْمَهْدَ - مفع - رجل ملتہد - کمزور۔ ذلیل و

حقیر۔ دروازوں پر دھکے دیا ہوا۔

الْمَهْدَب - ہمیشہ رہنے والی چیز۔

لَهْدَمَتَ - کاٹنا۔ تَلَهْدَمَتَ - کاٹنا۔

تَلَهْدَمَ - الشیء کھانا۔

الْمَهْدَمَ - نیز کاٹنے والی تلوار۔ بھالا۔ دانت

وغیرہ۔ ج۔ لہازم و لہا ذمتہ

الْمَهْدَمَتَ - چور۔

لَهْدَمَ (ن) لَهْدَمَ - الشیء فلاناً - کسی شے کا

کسی کے اندر ظاہر ہونا۔ القوم - قوم سے

مل جل جانا۔ لَهْدَمَ الشیء - بڑھا یا

ظاہر ہونا۔ صفت مفعولی (ملہود) لَهْدَمَ

بالخ - سینہ میں نیزہ مارنا۔ لَهْدَمَ فلاناً۔

مکا مارنا۔ الفقیل ضرب آہ بچے کا دودھ

پیتے وقت اپنی ماں کے تھنوں پر ٹکر

مارنا۔

لَهْدَمَكَ - تَلَهْمِنَا - کان کے نیچے کی ہڈی

اور گردن پر مکا مارنا۔

اللَاهِنَ - نا۔ پہاڑ اور ٹیلہ جو راستے کو تنگ

اور دشوار گزار بنادے۔ دو پہاڑ

جب اس قدر قریب ہوں کہ بیچ میں

ایک گلی کی طرح فاصلہ رہ جائے تو

دونوں پہاڑوں کو لاہزن کہتے ہیں۔

الْلَهَاسَ - چرخ وغیرہ کے سوراخ کو تنگ

کرنے کا چھیڑنا۔

الْلَهْزَ - سخت۔ الْلَهْزَ - جبرے کی

اُجھری ہوئی ہڈی۔

الْمَهْزَ - جبرے کی ہڈی اور گردن پر

مکا مارنے والا۔

الْمَهْمُوسَ - مفع - گھٹے بدن والا۔ جبرے

کی ہڈی پر داغ لگا ہوا۔

الْلَهْمُوسَ - جبرے کی اُجھری ہوئی ہڈی۔

ج۔ لہازم۔

لَهْسَ (ن) لَهْسَا - الشیء - چاٹنا۔ الصبی

دسوی امہ۔ بچے کا اپنی ماں کے

پستان کو بچے چوسے ہوئے چاٹنا۔

علی الطعام - کھانے پر پھیر کرنا۔

لَا هَسَ مَلَا هَسَتَ - علی الطعام کھانے

پر پھیر کرنا۔ القوم الی الشیء تیزی کرنا

اور پھیر کرنا۔

الْلَاهِسَ - اللواہس کا واحد۔ پھرتیا

چست۔

الْمَهَاسَ وَالْمَهَاسَتَ - قھوڑی خوراک

الْمَهَسَ - چاٹنے کے قابل چیز۔ قھوڑی


چیز۔

لَهْسَمَ - ماعلی المائدة - دسترخون پر سے

سب کچھ کھا جانا۔

الْمَهَاسِمَ - وادی کی تنگ جگہیں۔

واحد۔ لَهْسَمَ۔



سے دُور پیاسا۔
 اللُّوَابُ۔ لُوبِ
 اللُّوَابُ وَاللُّوَابِ وَاللُّوَابِ
 اللُّوَابِ۔ شربِ مکرشورے سے علیحدہ
 رہی ہوئی قوم۔ ج۔ لُوب۔
 اللُّوب۔ گوشت کا ٹکڑا جو دیگر میں
 پھرے۔ شہد کی مکھی۔
 اللُّابِتہ۔ سیاہ پتھروں کا قطعہ۔ جو
 ج۔ لابات و لاب۔
 اللُّابِتہ۔ سیاہ اونٹوں کا گردہ۔
 المَلَّاب۔ ایک قسم کی خوشبو۔
 اللُّوَب۔ مفعول بیچ دار لوہا۔
 اللُّوَلُوبُ۔ بیچ بیچ دار کیل۔
 المَلُّوَلُوبُ۔ سرمہ لگانے کی سدا کی
 لَات یَلُوتُ کو تہا۔ الرجل۔ بغیر
 پوچھے ہوئے خبر دینا۔ الخیر خبر چھپانا
 کسی کے حق کو کم کرنا۔
 اللَّات۔ ایک بت کا نام۔ لَات حین
 یہ موقع نہیں۔ یہ وقت نہیں۔
 لَات یَلُوتُ۔ سر پر عمامہ لپیٹنا۔
 اللُّصَابُ بِالْجِل۔ کمر کا پہاڑ کو ڈھانک
 لینا۔ بھلان پناہ لینا۔ وائرہ گھر پر
 رہنا۔ الشی منہ میں چھپانا فی الامر دیر
 کرنا۔ عین الحاجتہ حاجت میں سستی
 کرنا۔ ثوبہ بالظین۔ کپڑے کو مٹی
 میں لپیٹنا۔ الشی۔ جھگو کر ملانا لاث
 فلان۔ چھوٹنا۔ مالات فلان ان
 غلب۔ وہ غالب آنے سے ڈرنا۔
 لُوتُ رَس یَلُوتُ لُوتًا۔ دیر کرنا۔
 تاخیر کرنا۔
 لُوتُ تَلُوتُ شَاءَ الشی چیز کو بھگوننا۔
 الماء پانی کو گدھا کرنا۔ ثیار بالظین
 کپڑوں کو بچڑ میں لپیٹنا۔ الرتین
 بالقط۔ بھوسے کو۔ چارے میں

آلات الملاہی۔ گانے کے آلات الملاہی
 گانے کے آلات۔
 لَهْوٌ لَهْوَةٌ وَتَلَهْوُوق۔ بناوٹی
 سخی یا دیندار بننا۔ فی العمل کام اچھی
 طرح سے نہ کرنا۔
 لَو۔ یہ صرف چھ طریق پر مستعمل ہے۔
 (۱) زمانہ ماضی میں شرط کے معنی کے لیے
 جیسے لَو جاعنی لاکر منہ۔ اگر وہ میرے
 پاس آتا تو میں اس کی عزت کرتا۔
 (۲) زمانہ مستقبل میں شرط کے معنی
 کو تَلَفُّتُ اصداء بعد موتنا۔ کاش ہمارے
 اصداء موت کے بعد ملتے۔
 (۳) مصدر یہ معنی ان لیکن یہ نصب نہیں
 دیتا۔ عموماً و د یود کے بعد آتا ہے
 جیسے وَدَوَّا لَو تَاتِیْتُم۔ وہ چلے جاتے
 کہ تران کے پاس آئے۔
 (۴) تمنا کے لیے اس وقت اس کا جواب نہ ہو
 اور نا کے لیے آتا ہے۔ جیسے لَو
 تَاتِیْتُم فَعَدْتُم۔ کاش تو میرے
 پاس آنا اور مجھ سے باتیں کرتا۔
 (۵) عرض کے لیے۔ مثل الّا۔ اس کا
 جواب بھی منصوب اور نا کے ساتھ
 آتا ہے جیسے لَو تَنْزِلُ عِنْدَنَا تَقِیْب
 خیر۔ اگر تو ہمارے پاس آنا تو
 بہتری پاتا۔
 (۶) تنقیص کے لیے جیسے تَصَدَّقُوا
 بِظِلْفِ مَحْرَق۔ تم خیرات کرو۔ چلے
 ہوئے گھر سے۔
 لَاب یَلُوبُ لُوبًا وَلُوبَانًا۔ الرجل او
 البعیر۔ پیاسا ہونا۔ پانی کے گردا گرد
 پھرنا۔ اسم اللُّوب واللُّوب و
 اللُّوب واللُّوب لَوْبَتہ
 قلوبیا۔ لاپ خربو ملنا۔
 الاب اللابِتہ۔ الرجل پیاسے جانور
 وال ہونا
 اللَّاب (نا) ج۔ لوب پانی دُور

عنه تسلی پاتا۔ غافل ہونا۔ ذکر چھوٹنا
 منہ پھیرنا۔
 لَهَا تَلَهْوَةٌ۔ عن کذا۔ مشغول کر دینا۔
 خیال ہنا دینا۔ کذا۔ بھلانا۔
 لَهَا مَلَاهَا۔ قریب ہونا۔ جھگڑا کرنا۔
 بچہ کا دودھ چھڑانے کے نزدیک پہنچنا۔
 اَلْهَاءُ الرِّجَاءُ۔ اللعب عن کذا۔ غافل
 کرنا۔ فدان الشی۔ عاجزی سے چھوڑ
 دینا۔ الرِّجَاءُ و فی الرِّجَاءِ و لرجی۔ چکی
 گلہ ڈالنا۔
 اَلْهَى الرجل۔ بہت اور بہتر بخشش دینا۔
 تَلَهَّى تَلَهَّيًّا۔ بکذا اپنے آپ کو بھلانا۔
 تَلَهَّى تَلَهَّيًّا۔ بالملہ ہی۔ کھیل کود میں
 مشغول ہونا۔ القوم۔ آپس میں کھیلنا
 اللہی۔ الرجل بالشی۔ کھیلنا۔ عنہ بغیر
 مشغول ہونا۔
 اَسْتَلَهَى اَسْتَلَهَاءً۔ صاحبہ۔ ساتھی کا
 انتظار کرنا۔ پھیرنا۔ الشی زیادہ لینا۔
 نکلنا۔ اللہاء۔ مقیدار۔
 اللہو۔ کھیل۔ بھلاوا۔ شغل۔ غافل کرنے
 کی چیز۔ عورت۔ اولاد۔
 اللہاء۔ خلق کا کو۔ ج۔ لہوات و
 لہیات و لہی و لہی و لہا و لہا و
 و لہا و
 اللہوۃ واللہوۃ۔ چکی کا گلہ۔ تحفہ۔
 افضل عطیہ۔ ج لہی۔
 اللہیتہ۔ عطیہ۔ بہتر و کثیر عطیہ۔ زید لہو
 عن الخیر۔ زید بھلائی سے بہت
 غافل ہے۔
 اللہوۃ والالہیتہ والتلہیتہ۔
 بھلاوا۔ شغل۔ کھیل۔
 الملہی۔ کھیل۔ کھیل کا زمانہ۔ کھیل کی
 جگہ۔ ہذا الملہی القوم۔ یہ قوم کی
 اقامت کی جگہ ہے۔
 الملہی۔ کھیل کی چیز۔ کھیل۔ ج۔ مَلَاہ

کسی کی پناہ میں آنا۔ عنہ فریب سے
نکل جانا۔ بچ کر نکل جانا۔ فلانا نکل
کرنا۔ القوم۔ قوم کی مدارات کرنا۔
القوم۔ ایک دوسرے سے پناہ لینا۔
بالقوم۔ قوم کو گھیرنا۔

الآذ اکاذبة۔ بالجبس وبالقوم۔ بمعنی
لاذ۔ طریق بالدار۔ راستے کا گھر کو
محیط ہونا۔ الآذ بالدار بال طریق۔
گھر کا راستے سے متصل ہونا۔

اللوؤس۔ ہم پہاڑ کا کنارہ۔ وادی کا موڑ۔
فداں بطوف فی الواز البلاد۔ فداں
ملک کے اطراف میں پھرتا ہے۔
”ہو کوڈہ“ وہ اس کے قریب ہے۔

ج۔ الواذ۔ لوزان۔ الشیء چیز کا کنڈ
جانب۔ اللواذ تیرہ فریب بازی۔
اللاذہ۔ سرخ ریشی کپڑا ج۔ لاذ۔
التلواذ۔ اسم بمعنی ملاذہ۔ لواذ الشیء
قریب۔

الملاذ۔ قلعہ جائے پناہ۔ الملاوذ
ازارین۔ مفرد۔ ملوؤد۔
الملوؤدہ۔ جائے پناہ۔ الملوذ۔ کہیں
کے بعد کا گڑھا دودھ۔

لاذ یلوؤ۔ کوڑا۔ الیہ پناہ لینا۔
منہ۔ خلاصی پانا۔ الشیء کھانا۔
لوؤر تلویز۔ التمر۔ کھجور میں بادام بھرا
الموؤس۔ بادام۔ واحد۔ کوڈہ۔

الموؤنان۔ گلے کی دو گلیاں۔ سرین
کے دونوں گڑھے۔ ”انہ لوز لوز“
وہ غریب مفلس ہے۔

اللوؤزی۔ بادامی شکل کا۔ اللانز۔
جائے پناہ۔ ارض ملازہ۔ بہت بادام
کے درختوں والی زمین۔

المکوؤد۔ بادام بھری کھجور۔ اللوزینج ایک
قسم کا حلوا۔ لوزینہ۔
لاص یلوس کوؤسا۔ المحلات وغیرہ مٹھائی

کا بہت شوقین ہونا اور دھوڑ دھوڑ
کر کھانا۔ صفت لانس ولوؤس د
لوؤس والوؤس۔ الشیء چکھنا۔ الشیء
فی فمہ چیز کو اپنے منہ میں چکھ دینا۔
الموؤاسۃ۔ لقمہ۔ اللوؤس۔ جمع لانس
کھانا۔

لاص یلوس کوؤسا۔ درازہ وغیرہ کی دراز
سے دیکھنا۔ الیہ غور سے دیکھنا۔ فلانا
عن کذا۔ دھوکا دینا۔ الشجرۃ۔ درخت کو
کاٹنے کے لیے ادھر ادھر سے دیکھنا۔

الاصۃ الاصۃ۔ علی الشیء چکھ دینا۔
مَا اَلَصْتُ اَنْ اَخَذَ مِنْهُ شَیْئًا۔ میں
لنے اس سے کچھ لینے کا ارادہ نہیں کیا۔
اللبص الرجل خوف زده ہونا۔

تلوؤص تلوؤعا۔ لیٹنا۔ لوٹ لوٹ ہونا
اللوؤص مہ۔ کان کا یا گلے کا درد اللوؤص
شہد خالص۔

اللوؤصۃ۔ پیٹھ کا درد۔ الملاؤص۔
چاپلوسی۔ قریبی۔

لاط یلوٹ لوٹا۔ المحوض۔ حوض کو مٹی
سے لپینا۔ الشیء بالشیء چپکانا۔
الانسان مارنا۔ دھککا کرنا۔ فلانا بعین
ادسیم۔ تیر یا نظر لگانا۔ فلانا بفلان
لاحق کرنا نسبت کرنا۔ الشیء چھیلنا۔

(لاط فی الامر) اصرار کرنا۔
لوؤطہ تلویط۔ بالطیب۔ خوشبو سے
لنت پت کرنا۔

الناتۃ التیات واستیلاطۃ۔
استیلاطۃ۔ غیر کو اپنا بچہ بنانا۔
اللیاط۔ سود۔ اللوؤط۔ مہ۔ چادر حسبت
وچھریلا۔ سود۔ چپکنے والی چیز۔

انی لاجد لہ فی قلبی لوٹا۔ میں اس کی
محبت کو اپنے دل میں پیوستہ پاتا
ہوں۔ الاوؤط۔ زیادہ چھپنے والا۔
المستیلاط۔ منہ بولا بیٹا۔

لاطہ یلوؤطہ لوؤٹا۔ بمعنی لاظہ۔
التناظف۔ الحاجتہ۔ حاجت کا مشکل
ہونا۔

لاطہ یلوؤطہ لوؤٹا۔ الحب۔ محبت کا
کسی کو بیمار کرنا۔ سورج کا کسی کو ٹھیس
دینا (لوؤٹا و لوؤٹا) الرجل۔ گھبرانا۔
فکر مند ہونا۔ بیمار ہونا۔ بزدل ہونا۔
حریص و بد خلق ہونا۔

لاط یلایع و یلوی کوؤت۔ گھبرانا۔
تنگ دل ہونا۔ مریض ہونا۔ عجم یا
عشق سے دل جلنا۔ لوؤعہ تلویعہ۔

الحب محبت کا کسی کو بیمار کرنا۔
الاعتدۃ لاعتہ۔ الشمس۔ رنگ بدل
دینا۔ الشدی۔ پستان کے سرے کا
سیاہ و متغیر ہونا۔

التاع التیاع۔ عجم یا پشت سے دل کا
جلنا۔ رجل یلایع و یلایع لایع۔
بزدل۔ گھبرانے والا آدمی۔ مونث۔
لاعتہ لاعتہ۔

اللاع۔ گھبرانے والا۔ بزدل۔ بیمار۔ ج
لاعون و لاعتہ والواع۔

اللاقعۃ۔ مونث۔ اللع۔ تیر فہم ہوشیار
و بانگی عورت۔ ج لاعات۔

اللوؤعۃ۔ محبت، یا غم کی سوزش عورت
کے پستان کے سرے کی سیاہی۔
کاوۃ یلوؤ کوؤا بطعام۔ کھانا چپانا۔
موشی کا خشک گھاس کھانا۔

اللوؤ۔ مہ تا پسیدہ کھانا یا چارہ۔
اللوؤ۔ ایک قسم کا پودا۔

اللیف۔ خشک گھاس۔ اللوؤفۃ۔
پلیٹھن۔ خشکی۔

اللوؤاف۔ دریاں بننے والا۔
لاقعہ یلوؤقہ کوؤا۔ نرم کرنا۔ لاق عینہ
آنکھ پر مارنا۔ الدوات۔ دوات کی
روشنائی کو درست دھیک کرنا۔

ہو لایق عندک۔ دہاتیرے پاس
نہیں بھڑکے گا۔

لَوْنٌ تَلَوْنٌ۔ الطعام۔ کھانے میں مکھن
ڈالنا۔

اللَوْنُ۔ نرم کی ہوئی چیز اللَوْنُ جماعت
اللَوْنَةُ۔ ساعت۔ گھڑی۔ منٹ۔ لمحہ
اللَوْنَةُ وَاللَوْنَةُ۔ مکھن۔
اللَوْنُ۔ احمق۔ بے وقوف۔ الملَوْنُ
دوا فروش کا چمچہ۔

لَا يَلْوِيكَ نَكَا۔ اللَقْمَةُ۔ لقمہ کو ہلکے
سے چبانا۔ اور منہ میں پھینا۔ النفس للہام
گھوڑے کا گام چبانا۔ کہتے ہیں ہو یلویک
اعراض الناس۔ وہ لوگوں کی عزتوں پر
نکتہ چین کرتا ہے۔

اللَوَاكَةُ۔ تکلیف۔ سختی۔

لَوَا۔ اگر نہ لولا زید لاکر متک اگر زید

موجود نہ ہوتا تو میں تیری عزت کرتا۔

لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللہ تَعَالٰی تم اللہ سے

بخشش کیوں نہیں مانگتے۔ (ربمعی

شخصی) لَوْ لَا آخر نبی الی اجل قریب

تو نے کیوں مجھے تقویٰ نہ بتائی

نہیں رکھا (بمعنی عرض) لَوْ لَا جاؤا علیہ

باربعہ شہداء وہ کیوں چار گواہ اس

پر نہ لائے۔ (تفسیر و تہذیب)

لَا مَدَّ يَلْوَمُهُ لَوْ مَا مَدَّ مَا مَدَّ مَلَامَةً

فی کذو علی کذا۔ ملامت کرنا۔ سفت

فعلی (لام) صفت مفعولی (میسلم و

ملوم)

لَيَمَرَّ بِهِ۔ کاٹا جانا۔

لَوْمَةً تَلْوِيْمًا۔ ملامت کرنا۔ لَوْمًا لَانَا۔

حرف لام کہنا۔

لَا مَدَّ مَلَامَةً مَدَّ لَوَامًا۔ ایک
دوسرے کو ملامت کرنا۔

الَا مَدَّ الْاَمَّةَ۔ ملازمت کرنا صفت
فعلی (میسلم) صفت مفعولی (میسلم)

اسم۔ المَدَمَةُ۔ ج ملا دم۔ آلام۔
الرجل۔ قابل ملامت فعل کرنا۔

تَلَوْمٌ تَلَوْنًا۔ فی الامر۔ انتظار کرنا۔
دیر کرنا۔

تَلَاوَمُوا۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔

الْتَامَ اِلَيْهَا۔ ملامت قبول کرنا۔

اِسْتَلَامَ اِسْتِغْلَامًا۔ ملامت مستحق

ہونا۔ الی اَصْنِيف۔ اچھا سلوک نہ کرنا۔

الیہم۔ ایسا کام کرنا جس پر لوگ ملامت

کریں۔

الْلَامَةُ۔ ملامت کرنا۔ ج۔ لَوْمٌ وَلُوَامٌ

وَلِيْمٌ۔

الْلَامَةُ۔ مونث اللَامُ۔ ملامت۔ ج۔

لَوَامٌ۔

الْلَامُ۔ خوف۔ وجود۔ نزدیکی۔ سخت چیز۔

حرف لام۔ ج لامات۔

اللَوْمُ۔ مہ۔ ملامت۔ خوف۔

اللَوْمُ۔ بہت ملامت۔ اللَوْنُ وَاللَوْنُ

ملامت۔

الْلَامَةُ۔ خوف۔ اللَوْمَةُ۔ ملامت لیا ہوا۔

اللَوْمَةُ۔ بہت ملامت کرنے والا۔

اللَوَامُ وَاللَوَامَةُ۔ بہت ملامت کرنے

والا۔ النفس اللَوَامَةُ غلط کاری پر

لامت کرنے والا نفس۔

الْلَامِي۔ لام کی طرف منسوب۔ لامیۃ العجم

طغرائی کا قبیلہ لامیہ۔ لامیۃ العرب۔

شغری کا قبیلہ لامیہ۔

الْمَلْوَمُ۔ نا۔ برے فعل کی وجہ سے قابل

لامت۔ حاجت پوری کرنے کا منتظر۔

لَوْنٌ تَلْوِيْمًا۔ الشیء۔ رنگین کرنا۔ لَوْنٌ تَلْوِيْمًا

میں لکاؤ شہادہ ہونا۔ لَوْنٌ تَلْوِيْمًا

بڑھاپے کا کسی میں اثر ظاہر ہونا۔

تَلَوْنٌ الشیء۔ رنگین ہونا۔ مختلف رنگ کا

ہونا۔ الرجل۔ متلون مزاج ہونا۔

الْلَوْنُ رنگ۔ جو ایک چیز کو دوسری چیز سے

متماز کر دے۔

الْلَوْنُ۔ قسم۔ عِنْدَهُ لَوْنٌ مِنَ الشَّيْبِ۔

اس کے پاس کپڑے کی ایک قسم ہے۔

التَّلْوِيْنُ۔ ہم طرح طرح کے کھانے پیش

کرنا۔ اسلوب کلام بدناما۔

الْمَتَلَوْنُ۔ متلو بہ المزاج۔

لَا يَلْوِيكَ لَوْ هَادٍ لَوْ هَادٍ نَا وَتَلَوْنَا۔

السراب۔ سراب کا چمکنا۔

الْلَاهَةُ۔ سانپ۔ لَوْ هَادٍ لَوْ هَادٍ

دَلُوْدُهُ۔ سراب کی چمک۔

لَوَاكُ (داریۃ العین واللام) یلویہ

لَيًّا وَلَيًّا دَلِيًّا دَلِيًّا۔ ذہین و بدبین

قرض میں مال منول کرنا۔ فُلَانًا حَقًّا۔ حق

سب سے انکار کرنا۔

لَوِي يَلْوِي لَوِي۔ انقذ اور ال۔ تیر

یاریت کا تیرھا ہونا۔ النسبت نیاتات

کا خشک ہونا۔ المعوۃ والظہر۔ معدہ کا

درد والا ہونا۔ کمر کا جھکنا صفت مذکر

لو۔ صفت مونث لَوِيۃ۔ لَوِيۃ لَوِي

الحیثہ۔ سانپ کا کندھلی مارنا۔

لَاوَتُ مَلَاوَاةً وَلَوَاءُ الْحِيۃُ لِلْحِيۃِ سَانِپ

کا سانپ پر لپٹنا۔

لَوِي الْوَاءُ۔ القوم۔ قطعہ بریت کے موڑ

پر پہنچنا۔ الرجل خشک کھیتی والا ہونا

امیر کے جھنڈے کو سینا۔ الامیر لَوَاءُ

امیر کا کسی کے لیے جھنڈا نصب کرنا۔

الْبَقْلُ۔ سبزی کا مچھانا۔ فُلَانٌ۔ بہت

متما کرنا۔ بیدہ او بیوہ۔ یا فقیر یا کپڑے

سے اشارہ کرنا۔ بہ لے جانا۔ حق فلاں

حق کا انکار کرنا۔ بما فی الاناء۔ اپنے

لیے خاص کرنا۔ بہم الدھر۔ ہلاک کرنا۔

بکلامہ کلام میں تبدیلی کرنا۔ النبت

نباتات کا خشک ہونا۔ فُلَانٌ الْوَاءُ

بند کرنا اور نصب کرنا۔

تَلَوْنٌ تَلَوْنًا۔ الشیء مڑنا۔ البرق فی السحاب



بجلی کا بدل میں چکنا۔

تَلَاوَدَا تَلَاوَدِيًا - عَلَى فُلَانٍ جَمْع ہونا۔

تَلَاوَدِيَا - ایک دوسرے پر لپٹنا۔

التَوَي التَوَاعَ - الْقَدَحُ أَوِ الرَّقْلُ - تیر

یا قطع ریت کا ٹیرٹھا ہونا۔ عِلَّةُ الْأَمْرِ

دشوار ہونا۔ الشَّيْءُ: مَرُونا۔ لَوِيَّة

دوسرے کے لئے کھانا چھپا کر کھانا۔

اِسْتَلَوِي - سَمِ الدَّهْرُ: زَمَانِے نے ان کو

ہلاک ویران کر دیا۔

الْأُدُونِ وَالْأُدُو - الَّذِينَ كِي جَمْع

الْكَادِي - اس مفاعل ج لَادُون وَلَوَاة۔

الْكَادِي - لَادِي بن يعقوب بن اسحق بن ابرہیم

کی طرف منسوب۔ ج: لَادِيُون۔

الْوَاء - جَبْذًا - یہ رایت سے چھوٹا ہوتا ہے

ج: أَلْوِيَّةٌ وَأَلْوِيَات -

الْوَي مَص - معہ کا درد پشت کی نمیدگی

— الْوَي مَعْنَى الْإِلَاقِي ج: الْوَي - الْوَي

باطل باتیں۔

الْوَي - رِيَت کا موڑ یا ریت کا تنگ حصہ۔

ج: أَلْوَاءٌ وَأَلْوِيَّةٌ

أَلْوَاء - وادی کے موڑ۔ ملک کے اطراف

الْوَاء - ایک قسم کا پرندہ۔

الْوِيَاء - مَوْنَتُ الْوَي لَوِي - پانی سے دُور

زمن۔

الْوَوَّة - بِدَشْكِي - الْوَوَّةُ وَالْوِيَّةُ عَمَد

جس کی دھونی دی جائے۔

الْوِيَّة - قَرَابَتِيں -

الْوَوِي - خَشَك گھاس مرجھائی ہوئی گھاس

الْوَوِيَّة - دوسرے کے لئے چھپا کر رکھا

ہوا کھانا ج: لَوَايَا -

الْوَوِي سَخْت جھگڑا لو - جَنَاجُو - اکیلا۔

عَمَلَت نَشِيْن - مَوْنَتُ لَوِيَاء - الْوَوِي

مِنَ الطَّرِيقِ - غَيْرُ مَعْرُوف دُور کا راستہ

پڑھا سینگ - مَعْلَقَةُ مَرِي ہوئی مُم ج

لَوِي - رَاهُ اللَّهِ بِأَخُو لَوِي - خَدَاتَعَالِي

اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کرے۔

لَوِي - (دَادِيَةُ الْعَيْنِ يَا مِيَّةُ الْإِلَام) سَكُوِي

لَوِيًا وَلَوِيًا وَلَوِيًا - الْجَلِيل - رَی بِنَا -

مَوْنَتَا - الْفُلَامُ: رُطْبَے کا بیس سال

کا ہونا - عَنِ الْأَمْرِ: سَسْتِي کرنا فُكُوت

الْبِلَالِي كَفَّ عَلَى الْعَصَا - بُوْرُهَا بِنَادِيَا -

(— كِيًا وَلَوِيًا) امرہ عنی پوڑیدہ رکھنا

— سَرُو: چھپاتا - الْحَزْنُ قَلْبِي: و

پھیر دینا - عَلِيْهِ: مَرُونا - اِنْتَهَارُ كَرْنَا

رَاسَهُ اِدْبَرَا سَه - پھیرنا - اِعْرَاضُ كَرْنَا -

لَوِيَتِ النَّفْسُ بَذَنَهَا دَمُهَا نَا - فُلَانًا

عَلَى فُلَانٍ - قَضِيْلَت دِيْنَا -

لَوِي تَلَوِيَّةٌ - عِلَّةُ الْأَمْرِ: مُشْكَلُ كَرْنَا -

لَوِي اَعْنَاقُ الدَّجَال - غَالِبُ آتَا -

الْمَرِي الْمَرَاءُ بَرَا سَه - پھیرنا - لَوِي تَلَوِيًا

وَالْوَي التَوَاء - الْجَلِيل: بِنَا -

تَلَوَت الْحِيَّة - كَذَلِي مَارْنَا - الْوَي الْاَكْوَم

مُشْكَلُ ہونا - عَنِ الْأَمْرِ: سَسْتِي كَرْنَا -

الْمَلَادِي: بِيْج دَار رَاسْتِے مَلَوِي الْوَادِي

وادی کا موڑ۔

الْوِيَّة - لَوِي کا اسم ج: لَوِي

لَا تَمَ كِلِيَّتُهُ لِيْتًا عَنِ كَذَابُنَا -

رَوْنَا - لَا تَ زِيْدًا حَقًّا: حَقِّ كَم كَرْنَا -

الْاِتْمَا الْاِتْمَا - عَنِ كَذَابِ رَوْنَا - پھیرنا۔

الْوِيَّت - گردن کا پہلو - مَثْنِي لِيْتَات

ج: اَلِيَات -

لِيْتٌ وَيَا كِيْتٌ - كَاشُ كَر - یہ صرف دُور

میں مستعمل ہے (۱) تَمْنَا جیسے: بِيْتُ الشَّاب

يَعُوْد - كَاشُ كَر جَوَانِي دَاپَسْ ہو -

(۲) مَعْنَى وَجَدْتُ: جِيسِي۔ لِيْتٌ زِيْدًا خَفَا

میں نے زید کو واپس آتے پایا - يَا كِيْت

شَعْرِي دِيَا لِيْتِي لِيْتِي - كَاشُ كَر مجھے علم ہوتا

لِيْتٌ تَلِيْتِيًا وَلِيْتٌ وَكَلِيْتٌ تَلِيْتِيًا

الرَّجُلُ: شِيْر كَمَانْد ہونا -

لَا يَشْتُهُ مُلَا يَشْتُهُ شِيْر جِيسَا مَعَاكِرْنَا

شیر کی صفت میں فخر کرنا۔

اِسْتَلِيْت - شِيْر كَمَانْد ہونا اَلَا مِثْ شِيْر

الْوِيَّت - شِيْر كَمَانْد - طَاقَتِ سَعْتِي خُوش بِلَا

بَلِيْغُ ج: لَوِيَتٌ وَكَلِيْتُهُ -

الْوِيْتَةُ - شِيْر قِي مَضْبُوط اَوْنَتِي ج: كِيْتَات

أَلَا لِيْتٌ - شَجَاع - بَهَادَر - مَوْنَت: لِيْشَاء

ج: لِيْتٌ - ہوا كِيْتُ اَصْحَابِهِ - دہ اپنے

ساتھ بیوں میں زیادہ مضبوط اور قوی ہے

اَلْوِيْتَةُ - مَضْبُوط - قَوِي - اَلْوِيْتَةُ -

مولانا چربی دار

لِيْسِي كِلِيْسِي كِيْسَا - الرَّجُلُ: بَهَادَر ہونا

— عَنهُ: مَاقَل ہونا

لِيْسِي وَكَلِيْسِي - ب: اس فعل کا مضارع نہیں

آتا، یہ اصل میں لِيْسِي ہے۔ ابتدا اور خبر

پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب

دیتا ہے كِلِيْسِي زِيْدٌ قَائِمًا - زِيْدُ كَرُ اَنِيْس

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ - كِيَاں میں تمہارا رب نہیں

— (مَعْنَى اِلَّا) جِيسِي جَاؤُ الْقَوْمُ كِلِيْسِي زِيْدًا

زید کے سوا سب قوم اُلی۔

تَلِيْسِي الرَّجُلُ صَاحِبُ طَقَتِ وَقُوْت ہونا۔

تَلَا لِيْسِي الرَّجُلُ تَلَا لِيْسَا: اچھے اخلاق

والا ہونا - عَنهُ: جَشْم پوڑشی کرنا۔

أَلَا لِيْسِي - بَهَادَر - دہ اونٹ جو قسم کا بوجھ

اُٹھالے گھڑی پر رہنے والا - شِيْر: اچھے

اخلاق والا - مَوْنَت: كَلِيْتَا ج: لِيْسِي -

قَوْمٌ لِيْسِي لَوِيْسِي - سَعْتِ قَوْمٌ - اَبْنُ عِلِيْسِي

عَلَى الْوَقْفِ: حَوْض سے جہاز ہونے والا اَوْنَت

اَلْمَلَا لِيْسِي - سَسْت -

لَا مَنَ كِلِيْسِي كِيْسَا - اِيْك طرف ہونا -

الشَّيْءُ: چَرِيْر كَمَانْد لَنے کے لئے حَرَك مَعِيْنَا

اَلْاَصْلُ الْاَصْلَةُ - الشَّيْءُ: مَعْنَى لَاصِد -

فُلَانًا عَنِ كَزَا - مَحْسُلَانَا -

لَا طَ كِلِيْطُ كِلِيْطَا - جَمْنَا - الشَّيْءُ: قَلْبِي:

مَحْبُوب ہونا - دِل سے چکنا - فُلَانًا بِنَادِي

لَا حِي كَرْنَا - اَلْمَلَا فُلَانًا - لَعْنَتُ كَرْنَا -



الْأَطْمَ الْأَطْمَةَ - چکانا۔
 لَيْطَةً يَهْ تَلِيْقًا - جوڑنا چکانا۔
 اللِّياط - سینٹ، پچوڑ، پاخانہ، سود، رنگ
 اللِّیْط - مہم رنگ - اللِّیْط - رنگ کھال
 مادت - ہر چیز کا چھکا۔
 اللِّیْطَةُ - چال - زکل کا چھکا۔ کمان نیز
 کا ڈنڈا ج لبط و لیاط و اللِّیاط
 لَا عَمَّ يَدْلُجُ كَيْفًا نَا - بزدل ہونا۔ ٹھکانا
 اَلْمَوْجُ فُلًا نَا - بھوک کا سوزش میں مبتلا کرنا
 اَلْمَوْجُ - تنگ دل ہونا۔ زچ ہونا۔ ریر، یلغ
 سخت یا گرم ہوا۔
 اللِّیْعَةُ - لاء کا اسم مرہ۔ لیعۃ الجوع
 بھوک کی شدت۔ بھوک کی سوزش
 لَا عَمَّ يَدْلُجُ كَيْفًا نَشِي - بھسلانا۔
 تَدْلُجُ تَدْلُجًا - بے وقوف ہونا۔
 اللِّیَاعَةُ - احمق بے وقوف - اللِّیْع -
 کال بے وقوفی - کلام سیکھ لیتے۔
 خوشگوار کھانا۔
 اَلْأَلِیْعُ - صاف کلام نہ کر سکنے والا۔ احمق
 بے وقوف۔ مونث کئیخا جہ: لیغ
 لَوَّ يَلِيْقُ كَيْفًا - الطعام - کھانا کھانا
 كَيْفَتُ تَلِيْقًا - فیلۃ اخل کھور کا
 زیادہ اور مٹی چال والی ہونا کئیخ
 فُلًا نَ اللِّیْق - لیف کرنا۔
 اللِّیْق - کھور و فیروہ کی چال واحد (لِیْق)
 اللِّیْقَات - کھور کی چال کے مشابہ لمحیۃ
 لِنِفَاتٍ - گھنی اور پھیلی ہوئی دائرہ
 السُّلُیْق - حمام کا لازم جو بدن طے پڑھتا ہو
 لَوَّ الدَّوَاةُ يَلِيْقُهَا كَيْفًا وَلِیْقَةُ دَوَاةٍ
 میں صوت ڈالنا۔ روشنائی کو ٹھیک
 کرنا۔ دوات (رملیۃ)
 لَوَّ يَلِيْقُ كَيْفًا وَلِیْقَةُ وَلِیْقًا
 و کئیخا۔ نفلان، کسی سے پناہ لینا
 چٹنا۔ بہ اثر ہے، موزوں و مناسب ہونا

کتنے ہیں "مالقت بعدک بارضی" میں تیرے
 بعد کسی زمین میں نہیں رہا۔ اَلْمَوْجُ لَا یَلِيْقُ
 وَلَا یَلِيْقُکَ - یہ کام تمہارے مناسب نہیں
 مایلیق ان تفعل کذا (تیرے لئے ایسا
 کرنا مناسب نہیں) فلاں مایلیق ببلد
 (فلاں کسی شہر میں نہیں ٹھہرتا)۔
 لَیْقَ الطعام - نرم کرنا۔ (الشرب بالسنن
 زیادہ گھی ڈالنا)۔
 الاق الدَّوَاةُ الْاِقَّة - معنی لاقھا۔
 - فلاں تنفس۔ اپنے ساتھ لگانا۔ ما
 الاقنۃ البصرۃ میں بھروسہ نہیں ٹھہرا
 فلاں مایلیق یدہ شیئا۔ فلاں کے ہاتھ میں
 کوئی چیز نہیں ٹھہرتی "ہذا سیف لا
 یلیق شیئا" یہ تلوار جس کو چھوتی ہے
 کاٹ دیتی ہے۔
 اَلْمَلِیْقَاتُ - فلاں بفلان غلص
 دوست ہونا۔ چٹنا۔ الرجل
 مستغنی ہونا۔
 اللِّیَاق - چاگاہ مستعمل مزاجی اللِّیَاق
 آگ کا شعلہ۔
 اللِّیْق - ایک بیاہ دوآئی جو سرمہ میں ڈالتے ہیں
 اللِّیْق - بادل کے متفرق ٹکڑے
 اللِّیْقَةُ - صوف جو دوات میں ڈالاجاتا
 ہے۔ دیوار لپیٹنے کی مٹی جو لینگ و جہ
 مَلِیْقَات - خوبصورت پیارا چہرہ۔
 لَا یَلِکُ مَلَا یَلِکُ - ایک رات کے لئے اہل
 پرلینا۔
 اَلْأَلُ الْقَوْمُ إِلَّا لَوَّ الْأَلِیْقُ إِلَّا لَوَّ
 رات میں داخل ہونا۔ لیل لائل - بہت
 لمبی اور سیاہ رات۔
 اللِّیل - رات (نور مژنٹ) ج اللِّیالی
 یا کی زیادتی کے ساتھ اور کیلپی بھی کہا گیا
 ہے۔ بعض کے نزدیک اللیل واحد معنی
 جمع کے واحد (لیلۃ) ہے بعض کے خیال میں
 لیل مثل لیلۃ کے ہے۔

اللِّیْلَتی - رات کی طرف غریب رات کا سفر لہند
 کرنے والے۔
 لَیْلَی - الخمر خراب کا اٹھاؤ مٹی، بیاہ رات
 اللِّیْلَتہ - رات ج لیلات
 کَیْلُ الْکَیْلُ وَ مَدِیْلُ - لمبی سخت تاریک
 رات۔
 اللِّیْم - صلح شکل و شبہت میں کسی سے مشابہ
 اللِّیمون - لیمو۔
 لَوَّ يَلِيْقُ كَيْفًا وَلِیْقًا وَلِیْقَةُ نَم
 یا چٹنا ہونا صفت کَیْلُ وَلِیْقُ نَم (الیان)
 لَیْلَی نَشِي تَلِیْقًا وَلَا نَ الْاِقَّة و
 اَلِیْقَتہ اَلِیْقًا نَم کرنا۔ اَلَا نَ
 یَلْقُوْمُ یَخَاحَہُ اَس لَمَ لَمَ لَمَ سے
 نرم برتاؤ کیا۔
 لَا یَتَمُ مَلَا یَتَمُ وَلِیْقًا نَم کرنا
 نرم برتاؤ کرنا۔
 تَلِیْقُ نَشِي تَلِیْقًا - نرم ہونا۔ بفلان
 چا پوسی کرنا۔
 اَسْتَلَا نَ اَسْتَلَا نَ - اللِّیْق - نرم جاننا
 نرم پانا۔
 اللِّیَان - مہم۔ زندگی کی آسودگی۔ ناز و نعمت
 کی زندگی۔
 اللِّیْم - نرم جہ لَیْمون - اللِّیْم مہم
 مجھ کے علاوہ ہر کھور کا دخت واحد (لِیْم)
 اللِّیْمَتہ - لیل کا مونث لَان کا اسم مرہ یلیمہ
 اللِّیْمَتہ مہم لَان کا اسم نوع کروری وھیلاپن
 اللِّیْم - نرم جہ لَیْمون و اَلِیْمہ
 اَلْأَلِیْق - نرم جہ اَلِیْمہ - بہت نرم۔
 اَلْمَلِیْقَتہ - نرمی، مہربانی اعلیٰ من الادویۃ تہی
 اللِّیْقُو قَرُوا لَیْلًا قَر - کنول کا پھل۔
 لَا یَلِیْقُہُ کَیْفًا - بلند ہونا۔
 اللِّیْوَان - محل کشادہ، فراخ مکان جو ہر
 جہ سے گھرا ہوا ہو۔
 اللِّیَا - ایک قسم کا سفید غلہ۔ (دالیا)
 وہ زمین جو پانی سے ندر ہو۔



م (۴۰)

۳۔ یہ صرف ہے جو جمع ذکر پر دلالت کرتا ہے جیسے
ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ فِي الْأَرْضِ
کبھی حرف قسم بن کر آتا ہے اور لفظ اللہ کے
ساتھ مخصوص ہوتا ہے جیسے مَا يَلْمِ
لَا فَعَلْتَ كَبِيْرُ حُرُوفِ جِزْ کے بعد استفہام
کو مفید ہوتا ہے۔ جیسے لِمَ وَ عَلَامَ۔ اور
اصل میں یہ مَا استفہامیہ ہے۔ الف حرف
ہو گیا ہے اور میم کی حرکت فتح کی باقی رہ
گئی ہے۔
مَا۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے :-

۱۱، حرفیہ۔ یہ مندرجہ ذیل طریقوں پر متعلق
ہے :-

مَا هَذَا الْبَشَرُ ۱۔ یہ آدمی نہیں۔ زائد
جیسے فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ
پس خدائی رحمت سے تو ان کے لیے نرم
ہوا۔ مَا كَانَهُ۔ جیسے كَانُوا يُسَاقُونَ
إِلَى الْمَوْتِ۔ گویا کہ وہ موت کی طرف
ہانکے جاتے ہیں۔

مَا مَصْدَرِيہ۔ جیسے وَمَنْ أَتَى عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
بِمَا رَحِبَتْ۔ باد جو دو فراخ ہونے کے
ان پر زمین تنگ ہو گئی۔

مَا مَصْدَرِيہ ظہیریہ۔ جیسے وَأَوْصَاةٍ
بِالْأَسْلُوةِ وَالْأَكْوَةِ مَا دُمْتَ خَيَّاسٍ
نے مجھے زندہ رہنے تک نماز اور زکوٰۃ کا
حکم دیا۔

۱۲ اسمیہ استفہامیہ۔ جیسے مَا عِنْدَكَ
تیرے پاس کیا ہے۔ مَا زَيْدٌ زَيْدٌ کیا ہے
مجرور رہنے کی حالت میں اس کے الف کو
گرا کر میم پر فتح پڑھتے ہیں جیسے عَمَّ
يَنْتَسِرُونَ۔

مَوْسُولہ۔ جیسے مَا عِنْدَكَ كَمْ يَتَفَدُّ
جو کچھ تہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔

جَزَائِيہ۔ جیسے مَا لَفَعْلُ أَفْعَلُ۔ جو
کچھ وہ کرے گا میں کروں گا۔
تَعَب کے لیے۔ جیسے مَا أَحْسَنَ زَيْدًا
زید کیا ہی خوب صورت ہے۔
فعل کے ساتھ مصدر کی توحید کے لیے جیسے
بَلَعْنِي مَا صَنَعْتَ۔ مجھے تیرا فعل پیچ گیا
نکرہ موصوفہ۔ جیسے مَوْرَثٌ بِمَا مُعْجَبٌ
تِلْکَ میں ایسی چیز کے پاس گذرا جو مجھے
تعب میں ڈالے۔

ابہام کے لیے۔ جیسے اُنْتَرِي زَيْدًا مَا
کوئی کتاب لا۔

بَيِّنًا۔ جبکہ۔ سَخَالَمَا۔ یونہی۔ حَقِيقًا جہاں
کہیں۔ حَقِيقًا۔ جب کبھی۔ جب۔
الْمَاهِيَّةُ۔ مِنَ الْأُمْرِ أَرَأَيْتَ
حقیقت۔ کسی چیز کی اسیت۔
الْمَاءُ۔ دیکھیے۔ مَوَّج۔

مَوْجِجٌ۔ مَوَّجَةٌ۔ بے وقوف ہونا۔
الْمَاءُ۔ پانی کا کھارا اور کڑوا ہونا۔

الْمَآجِ۔ بے وقوف۔ بے آرام۔ کُرْوَا۔
منسکین۔

مَا دَانِ مَا دَا۔ الْبَنَاتُ أَوِ الشَّجَرَةُ
بنات کا لہلہانا۔ تَرَوْنَاهُ ہونا۔ بَنَاتُ

میں پانی بہنا۔ نرم دناڑک ہونا۔
أَمَادَ۔ تَرَوْنَاهُ بنانا۔ اِمْتَادَ۔ اَلْخَيْدُ

بھلائی لگانا۔
الْمَادُ وَالْيَمُودُ۔ تَرَوْنَاهُ۔ نازک۔

الْمَيْسِدُ۔ نازک۔
مَا دَرَانِ مَا دَرَا۔ اَلْإِقْدَاؤُ شُكُّ کو

تَرَوْنَاهُ کرنا۔ بَيْنِ الْقَوْمِ۔ قوم میں فساد
ڈلوانا۔ فساد پر ابھارنا۔

مَكْرَسَ اس، مَآسَرَا۔ الْجَرْحُ۔ زخم کا خراب
ہونا۔ سَوْجَا۔

عَلَى فَلَانٍ۔ دشمنی سوچنا۔
اِمْتَأَسَرَ۔ عَلَى فَلَانٍ۔ کینہ رکھنا۔
مَاؤْلَهُ مَآسَرًا اِمْمَاءُ مَرَاةٍ۔ مقابلہ کرنا۔
كَافِي فَعْلًا۔ برابری کرنا۔

مَاءُ سَابِغٍ الْقَوْمِ۔ قوم کو اس کا فساد
ڈالنا۔

نَمَاءُ مَرَاةٍ مَرَاةٍ۔ آپس میں فخر کرنا۔
الْمَدَامُ۔ سخت شکل کام۔ وَالْمَادُ مُمْسِدُ

الْمَادَةُ۔ دشمنی۔ جھیل خوری۔ جِھْدُ
مَاؤْنِ ان، مَآسَا۔ عَلَيْهِ عَضْبَانُ ہونا

بَيْنَ الْقَوْمِ۔ فساد پر پا کرنا۔ اَلْدَبَاغُ
الْمَجْدَانِ۔ رنگ ریز کا چمڑے کو دنا۔ مَسْلَا۔

وَمَتَسَّسَ اس، مَآسَا۔
الْجُرْحُ۔ زخم کا فراخ ہونا۔

الْمَآسُ۔ مع۔ وہ شخص جو کسی کی نفسیت
قبول نہ کرے۔

الْمَآسُ وَالْمَآسُ وَالْمُؤَدُّسُ وَ
الْمَآسُ وَالْمَآسُ جَفَلُور۔ فساد انگیز

مَآسَا، ان، مَآسَا۔ عَنْهُ بَكْدَا۔ ہٹانا۔
الْمَطْرُ الْأَرْضُ۔ بارش کا زمین کو

سیراب کرنا۔ بارش کو تَمْلِيشُ کہتے
ہیں۔

مَتَّقٍ اس، مَآتًا۔ اَلْبَقِيَّةُ۔ بچہ کا سبک لینا۔
مَتَّقٍ رَحْمَتُ۔ الرَّجُلُ۔ سخت

عضبناک ہونا۔
اَسَقَّ سَبَكُ لِنَا۔ اِمْتَمَّةُ۔ سبکی لینا۔

غَضَبُهُ۔ سخت غضبناک ہونا۔ اَلْحِ
بِالْبَكَارِ۔ روتے ہوئے آنا۔

الْمَادُ وَالْمَوْتُ جِ اَمَاتٍ وَ اَمَاتٍ
وَمَوَاتٍ وَ مَوَاتٍ وَالْمَوْتُ وَالْمَوَاتِ۔

اج، مَآقِ۔ ناک کی طرف کا آنکھ کا کویا۔
اَلْغُوشَةُ رَشِيمُ



الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ مِنَ الْأَرْضِ - زمین کے نشی اطراف - ۲۰ - آمات

الْمَاتُ - شدت گریہ - الْمَاةُ - شرم و حیا سے نفرت - غصہ کی تیزی - حمیت

الْمَيْتُ - جلد رو پڑنے والا - مثل ہے اَنَاتُی وَأَنْتَ مَيْتٌ - میں شرارت کی طرف جلدی کرنے والا ہوں - اور تم جلد رو پڑنے والے

یہ مثل مختلف مزاج لوگوں پر بولی جاتی ہے

الْمَاةُ - سبکی - گریہ و زاری - الْمَوَاتِی - آنکھ کے کونے - داخلہ ماتی

مَالٌ وَمَيْلٌ رَنٌ سٌ وَ مَيْلٌ رَنٌ سٌ مُوَدَّةٌ وَمَالَةٌ - مودا ہونا صفت

رَمِيلٌ وَمَالٌ کہتے ہیں - بھلاؤ کا اَمْرٌ مَا مَالٌ لَهُ مَالَةٌ - اس کو ایسا

معاملہ پیش آیا جس کے لیے وہ تیار نہ تھا - اور نہ اس کو اس کا علم تھا -

الْمَالُ - جائے پناہ - المائلة - بارغ چلی رَجٌ مَيْلٌ -

الْمُمْتَلِی - سیدھا دروازہ قیامت آدمی - الْمَالِجُ - کرنی - پانی کو برابر کرنے کا آلہ

مَامَاتٌ مَا مَامَةٌ - انشاءً اَوْ الظَّلْمَةُ بکری یا بھرنی کا میانا - مَانٌ رَنٌ مَانًا

الرَّجُلُ - ناف پر مارنا - چوکنا رہنا - یحیی الْقَوْمُ - خوراک دینا - اِمَانٌ مَا فَدٌ وَاَشَادَ شَانُکَ - جو تمہیں اچھا لگے وہ

کر دو - مَاتَ تَمَيَّتَ - الشیئی - تیار کرنا - فَلَانَا معلوم کرنا - خبردار کرنا - جنانا - (وَمَا تَن)

فی الالهہ - غور کرنا - سوچنا - تَعَانٌ تَمَادُونَا - الشیئی - پرانا ہونا -

الْمَاةُ - ناف اور اس کے گرد کا حصہ - ج. مَا مَاتَ وَمَوَدَّتْ رُو الْمَانُ - کمر کول -

الْمُوَدَّةُ وَالْمُوَدَّةُ - خوراک - بلو جھ - تکیف - ۲۱ - مَوْنٌ

الْمَيْتَةُ - نشان - علامت - الْمَمَانَةُ - لائق - مناسب - سردار -

مَا يَمُورُ وَمَوَادٌ - بی کامیابوں کرنا - مَا دَا چرے کو کھینچ کر چوڑا کرنا -

تَمَائِي تَمَيَّتَا - الْجِلْدُ - چرے کا کھینچ کر چوڑا کرنا - الشَّرُّ بِلَيْهِمْ - فساد پھیلنا -

مَا وَفَا - لپٹ زمین - ج. مَا وَمَا يَمُورُ مَا يَأُ - الْجِلْدُ - چرے کو کھینچنا - الْقَوْمُ سَوَانٌ ہونا - قَوْمٌ دَمَمِيُونٌ - ہوئی -

بَنِيهِمْ - فساد و انارنا - رَنِي الْاَلْهَرُ - مبالغہ کرنا -

الشَّجْوُ - درخت کا پتوں سے بھر جانا - اُمَاي اِمَاءُ - الْقَوْمُ - قوم کا سو ہونا -

الْقَوْمُ - اپنی شمولیت سے سونپنا - تَمَائِي تَمَيَّتَا - کٹا دہ ہونا - کھینچنا - الشَّرُّ بَيْنَ الْقَوْمِ - قوم کے درمیان شرف و فساد

پھیلنا - الْمَاةُ - نَمُوہ - ج. مِمَاتٌ دَمِيُونٌ دَمَائِي - نسبت کے لیے مَتَوِي -

مَتَنٌ رَنٌ مَتَا - کھینچنا - الْجِلْدُ - رسی کو بھر چرخ کے کھینچنا - اِلٰی فَلَانٍ بِقَرَابَةٍ

تعلق پیدا کرنا - قَرَابَتٌ دُھوڑنا - مَاتٌ - فَلَانَا - رشتہ کے تعلقات یا دلدانا

الْمَاةُ - ج. مَوَاتٌ وَالْمَمَاتُ - وسیلہ قَرَابَت - رشتہ داری -

مَتَانٌ مَتَا - مَتَا - بِالْعَصَا - لائی سے مارنا - مَتَّحٌ رَنٌ مَتَّعًا - الْمَاءُ - پانی کنویں سے

نکالنا - الدُّو دُھما - دُول کھینچنا - صفت مَاتِجٌ وَمَتَوُحٌ - فَلَانَا - مارنا

پکھاڑنا - ایشی - اکھڑنا - الشَّجْوَةُ - کاٹنا - الْخَمْسِيْنُ - پچاس کے قریب ہونا -

مَتَّحٌ وَامْتَحٌ وَمَتَّحٌ - الْجَوَادُ - ٹڈی کا اندر سے دینا -

اِمْتَتَحٌ - ایشی - جڑ سے اکھڑنا - الْمَتَوُحٌ - پانی نکالنے والا - دُور - يَلُو

مَتَوُحٌ - قریب پانی والا کنواں - الْمَتَّاحُ - بہت لمبا - يَوْمٌ مَتَّاحٌ وَفَرَسٌ مَتَّاحٌ -

مَتَّحٌ - رَنٌ مَنٌ مَتَّعًا - ایشی - اکھڑنا - کٹنا - الْجَوَادُ - پالندہ - دُول سے کھینچنا

کُوالشَّہَرُ - تیرے بازنا - فَلَانَا - مارنا - دُور کرنا - ایشی - بلند ہونا - فی ایشی - گونا

لَسْلِحِهِ - بیٹ کرنا - ایشی - اکھٹا - الْخَمْسِيْنُ - پچاس کے قریب ہونا -

اِمْتَّاحٌ - ایشی - کھینچنا - عَوْدٌ مَتَّحٌ - نرم لمبی لکڑی -

الْمَتَّيْحَةُ - چھری یا کُورنا - مَتَدَانٌ مَتَوْدَا - بِالْمَكَانِ - اقامت کرنا -

مَتَدَرٌ رَنٌ مَتَدَرًا - ایشی - کاٹنا - الْجَبَلُ رَسًی کو کھینچنا - بَسْلَجَه - بیٹ کرنا -

تَمَاتَرٌ - گونا تَمَاتَرًا - ایشی - مس کر کھینچنا - اَمْتَرٌ - اَمْتَادًا - الْجَبَلُ - رسی کا کھینچنا -

الْمَتَرُ - مِیَر - ج. اَمْتَامٌ - مَتَسٌ مَنٌ مَتَسًا - ایشی - اکھڑنے کیلئے جھکانا -

مَتَشَّتٌ رَنٌ مَتَشًا - عَلِيْنَهُ - آنکھ کا دُھوپ یا دُھوک سے چندھیانا - دُھندلی ہونا - صفت اَمْتَشٌ - مَوْتٌ مَتَشَاءُ

ج. مَتَشٌ - مَتَشٌ رَنٌ مَتَشًا - ایشی - انگلیوں سے بکھیرنا - جَمْع کرنا - اَخْلَافُ النَّاقَةِ - آہستہ آہستہ دوہنا -

مَتَّعٌ رَنٌ مَتَّعًا وَمَتَّعَةً - بالِیشی - لے جانا - مَتَّعٌ رَنٌ مَتَّعًا - ایشی - دراز ہونا -

الْكَهَّاسُ - دن چڑھنا - الذَّبْدُ - نبید کا بہت سُرخ ہونا -

الرَّجُلُ - سخی و خوش طبع ہونا - السَّرَابُ - مراب کا دن کے ابتدائی

حصہ میں بند ہونا - الْحَبْلُ - مضبوط ہونا -



مَتَّكَ - وَالْمَتَّكَ دَامَتُكَ مَتَّكَ کی ناک بھوں
سرسن - مَتَّكَ الدَّيَّاب - مَتَّكَ کا گور۔
مَتَّكَ رَن، مَتَّكَ الشَّيْ - ہلانا - حرکت دینا۔
مَتَّكَ رَن، مَتَّكَ مَتَّكَ - مضبوط و قوی ہونا بھٹ
رَمَتَّكَ، مَتَّكَ مَتَّكَ رَن، مَتَّكَ مَتَّكَ مَتَّكَ
اقامت کرنا۔
الْمَتَّكَ جُل - قسم کھانا، سفر کرنا۔ بھلاؤں -
کسی کے ہمراہ تمام دن چلنا۔ الشَّيْ - کھینچنا۔
الْمَتَّكَ - مینڈھے کے بیچے مع رگوں کے
لگانا۔
- مَتَّكَ - بِالسَّوْط - زور سے کوڑے مارنا۔
مَتَّكَ رَن، مَتَّكَ مَتَّكَ دَامَتُكَ - پیٹھ پر مارنا۔
مَتَّكَ - الشَّيْ - مضبوط بنانا۔ الدَّوْ -
دول کو مضبوط باندھنا۔ الْخِيْمَةُ - خیمہ کو
خوب کرنا۔ الطَّعام - کھانے کو مصلو
دار بنانا۔ لَمَتَّكَ سَابِقَهُ - آگے بڑھنے
والے سے کسنا کہ تم فلاں مقام تک پہنچیں
تم سے آکر مل جاؤں گا۔
مَتَّكَ - فَلَا تَا - مانا۔ بہت دور کرنا۔ کُفِي
الشَّعْوَ - شعریں مقابلہ کرنا اور غالب آنا۔
نَمَاتُكَ - الشَّاعِرَانِ فِي الشَّعْرِ - شعر
میں ایک دوسرے سے مقابلہ۔ مَتَّكَ مَتَّكَ
پیٹھ (نذر و موت) ا
مَتَّكَ الشَّيْ - چیز کا ظاہری حصہ مَتَّكَ الدَّيَّاب
زمین کا بلند و ہموار حصہ۔ الطَّبَق - راستہ
کا درمیان۔ الْكِتَاب - کتاب کی اصل عبارت
بغیر شرح اور حاشیہ کے۔ الْمَتَّكَ - لغت کے
اصول و قواعد اور مفردات۔ سَاوَمَتَّكَ اَنَّهُ
سارے دن چلا۔ مَتَّكَ الطَّهْر - پیٹھ کے ہر
دورخ و پہلو۔ ج - مَتَّكَ و مَتَّكَ
الْمَتَّكَ - سخت و بلند زمین۔ ج - مَتَّكَ و
مَتَّكَ۔
الْمَتَّكَ - مضبوط، قوی۔ کہتے ہیں جَبَلٌ مَتَّكَ
وَرَأَى مَتَّكَ وَفِي رَأْيِهِ مَتَّكَ مَتَّكَ
اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے جہاں

الْمَلَأَ. دُرُودِی کے درمیان کا فاصلہ - ج -
 مَتْنٌ -
 التَّمَتُّیْنِ: معم و التَّمَتُّانِ: خیمہ کی دسیاں -
 ا. ج. تَمَاتَتِیْنِ -
 الْمَاتِنِ: ف - کتاب کا مصنف -
 مَسْلُوبٌ: مَاتِنٌ - دُور کا سفر -
 مَتَّهَ اس، مَتَّهًا: بیہودہ اور لغوی باتوں میں
 مشغول رہنا -
 مَتَّهَ ان، مَتَّهًا: الدُّلُوءُ: دُور نکالنا -
 مَتَّهَ: حیران رہے و قوت ہونا - بے وجہ تعریف
 کا طالب ہونا - بکھر کرنا - دُور ہونا - مبالغ کرنا -
 بیہودہ باتوں میں مشغول ہونا -
 مَتَّاتَهُ: عَنِ الشَّيْءِ: غافل ہونا - انْعُومَ دُور
 ہونا -
 مَتَّائِمُوْهُ مَتَّوْا: ایشی - کھینچنا - مَتَّاکُ بِالْعَصَا
 مارنا -
 اَفْتَى اِمْتَامَ: بُرِی طرح چلنا - بہت رزق
 والا ہونا - عَمْرٌ دُور ہونا -
 مَتَّی: اگر دُور لے لینا -
 مَتَّی: کب - کب - کس وقت - جب -
 مَتَّی یَمَتُّ مَتَّیًا: ایشی - کھینچنا -
 مَتَّ اِن، مَتَّا: اَعْظَمُ: بُدِی کا گویا بہہ چلنا -
 الرِّزْقُ وَالسَّمَاءُ: پُکنا - الرِّجْلُ: مَوَاطِئُ
 کی وجہ سے پسینہ پانا - مَتَّ فِیْدُ
 ہاتھ تولیہ سے پونچھنا - شاربہ: مَوَاطِئُ
 کی چکنا پٹ کو ہاتھ سے پونچھنا - الْجُوحُ:
 زخم صاف کرنا - اَلْهَدِیْثُ: بات پسینا -
 مَتَّجَ: اِن، مَتَّجًا: ایشی - پسینا - مَتَّجًا: کھینچنا
 اَلْمُزْ: کٹواں صاف کرنا - بِالْعَطِیْثَةِ: عطیہ
 بخشنا -
 مَتَّجَ ن، مَتَّجًا: بَعِی الْجَوَادِ: پتھروں
 میں چھپ کر گھات میں بیٹھنا اور دیدہ بانی
 کا کام انجام دینا - الرِّجْلُ: کسی کو دیدہ بان
 مقرر کرنا -
 الْمَاتِقُ: ف - دہران -

چراگاہ میں چرنا مفت۔ (مَاجِدَة ۱۰۰ ج)۔
مَوْجِدٌ وَمُجَدٌّ وَمُجْدٌ۔

مُجَدٌّ۔ ک۔ مَجَادَة۔ بزرگی والا ہونا مفت
مَاجِدٌ وَمُجْدٌ۔ ج۔ اَمُجَادٌ۔

مُجَدٌّ وَأَمُجَدٌ۔ فَلَا تُنَاثِرُهُمْ رِيَاءٌ نَزَعِيَّةٌ
کرتا۔ بزرگی کی طرف نسبت کرتا۔ الْعَطَاءُ
بہت بخشش عطا کرتا۔ لِيَهْلِكَ مِنْ كَذِّهَا
زیادہ کرتا۔

أَمْجَدٌ إِلَى الْبَلِّ۔ بِمَعْنَى مَجْدٌ نَشْأَ
فَلَا تَنْوَلُهُ دُولُ لَيْدٍ۔ بہترین دُول
کا انتخاب کرتا۔

مَاجِدَةٌ مَجَادَةٌ وَمَاجِدَةٌ۔ بزرگی
میں مقابلہ کرتا۔

تَمَجَّدٌ۔ بزرگ ہونا۔ تَعْرِيفٌ وَالْأَهْوَاؤُ
تَمَاجِدٌ۔ باہم فخر کرتا۔ بزرگی بیان کرتا۔

اِسْتَمَجَّدَ۔ بزرگی طلب کرتا۔ اچھے صفات
میں شہرت پانا۔

الْمُجَدُّ۔ مع۔ عزت و بلندی۔ بلند زمین۔
ج۔ اَمُجَادٌ۔

الْمَاجِدُ۔ نا۔ بزرگی والا۔ خوش خلق۔ شئی
مَاجِدٌ۔ بہت چیز۔ مَرْنَتْ۔ مَاجِدَةٌ

ج۔ مَوَاجِدُ۔
الْمُجَدُّ۔ زیادہ شریف۔ زیادہ شان والا

الْمُجْدِيُّ۔ شاہ عبدالحمید ترک کا بنایا ہوا
چاندی کا سکہ جس کی قیمت تین شلنگ

چھ پینس ہے۔
مَجْرَانٌ، مَجْرَاٌ۔ پیاسا ہونا۔

مَجْرَسٌ، مَجْرَاٌ۔ مِنَ الْمَاءِ وَتَحْوِیْهِ
پیٹ کا پانی سے بھرنا۔ مگر سیراب نہ ہونا۔

مَجْرَتٌ وَأَمْجَرَتٌ۔ اِنشَاءً۔ پیٹ
میں بچہ کی دج سے بکری کا بوجھل ہونا۔

مَاجِرٌ مَجَارٌ وَأَمَّا جَرَةٌ وَأَمْجَرَةٌ فَلَا
فِي الْبَيْعِ۔ زیادہ لینا۔ سُودَ لِنَا۔

الْمَجْرُ۔ مع۔ حاملہ جانور کے پیٹ کا بچہ پیٹ
کے بچہ کا خریدنا۔ بڑی فروغ۔ جَوَا۔

زیادتی اور سُود۔ ہر چیز جو بہت ہو۔ عقل۔
الْمَجْرُ۔ مع۔ ملک بھگتی۔ ملک بھگتی کے ہونے

والے۔ سونے کے سکر کی ایک قسم۔ حاملہ
بکری کے پیٹ میں بچہ کی بُرائی۔

الْمَجْرُ۔ دُیے جسم بڑے پیٹ۔ دُیے جسم
بڑے پیٹ والا۔

الْمَجَارُ۔ اونٹ کے پاؤں باندھنے کی رسی۔
الْمَجْرُ۔ جوڑواں بچے جننے والی عورت۔

مَجْرَسَةٌ۔ مجوسی بنانا۔ تَمَجَّسَ۔ مجوسی ہونا۔
الْمَجْرُسُ۔ آگ یا سورج کی پرستش کرنے والے

«واحد۔ مَجْرُسٌ» کبھی مجوسی جادوگر اور
حکیم و داناکو بھی کہتے ہیں۔

الْمَجْرُسِيَّةُ۔ مجوسیوں کا مذہب۔
مَجْرَعٌ، مَجْرَعَانٌ، مَجْرَعَةٌ وَمَجْرَعَةٌ وَأَمْتَجَعٌ

وَمَجْرَعٌ۔ کھجوریں کھا کر ان پر دودھ پینا۔
مَجْرَعٌ، مَجْرَعٌ، مَجْرَعٌ، مَجْرَعَةٌ۔ مَجْرَعٌ

کرتا۔ اور بے شرم و بے حیا ہونا۔
مَا يَجْعُهُ مَمَاجَعَةٌ۔ باہم محول کرتا۔

مَجْرَعٌ مَمَجِعَةٌ۔ مَمَجِعَةٌ۔ کھجور اور دودھ
پلا ہوا کھانا۔

أَمْجَعٌ۔ الْفَصِيلُ۔ اونٹ کے بچہ کو برتن
سے دودھ پلانا۔

الْمَجْعُ وَالْمَجْعُ وَالْمَجْعَةُ۔ جابل
اُمْتِ۔ الْمَجْعُ۔ محول کرنے والا۔

الْمَجْعَةُ وَالْمَجْعَةُ وَالْمَجْعَةُ وَالْمَجْعَةُ
مَحْلُوبٌ جِوَعَتِ۔

الْمَجْعَةُ وَالْمَجْعَةُ۔ جابل عورت۔
الْمَجْعُ وَالْمَجْعَةُ وَالْمَجْعَةُ۔ محول

کرنے والا ہے جیا۔
الْمَجْعُ۔ کھجور دودھ کا بنا ہوا کھانا۔

الْمَجْعَةُ۔ بچا ہوا۔ مَجْعُ۔
مَجْلَتْ۔ ن۔ مَجْلَةٌ وَمَجْلَةٌ وَمَجْلَةٌ

س۔ مَجْلَةٌ وَأَمْجَلَتْ۔ بَدَلًا۔ ہاتھ
میں کام کرنے کی وجہ سے آبلہ پڑنا۔

أَمْجَلٌ۔ ہاتھ میں آبلہ ڈالنا۔

تَمَجَّلَ۔ رَأْسُهُ تَبَيَّحًا وَدُمًا۔ سر کا پیپ
خون سے بھر جانا۔

الْمَاجِدُ۔ نا۔ داوی یا پہاڑ کے دامن کا پانی
۔ آبلہ دار۔

الْمَجْلُ۔ مع۔ آبلہ۔ الْمَجْلَةُ۔ آبلہ، معاً
وَصَحْلٌ۔ عام لوگ اس کو بقوتہ کہتے

ہیں۔
مَجْمَعٌ۔ الْكِتَابُ۔ کتاب، کوصات نہ لکھنا

فِي حَدِّ يَثِيمٍ۔ بات صاف نہ کرنا۔
الْمَجْمَاعُ۔ ڈھیلے یا گوشت موٹا۔

مَجْمَعٌ، مَجْمَعَانٌ، مَجْمَعَةٌ۔ اَلِشَى۔ موٹا اور سخت
ہونا۔ (مَجْمَعَانٌ وَمَجْمَعَانَةٌ)

مَحْلٌ کرتا اور بے حیا ہونا۔ صفت (مَاجِرٌ)
ج۔ مَجَانٌ۔

تَمَاجِرٌ۔ آپس میں مزاح کرتا۔
تَمَجْرٌ۔ تَمَجْرٌ۔ تَمَجْرٌ۔ محول کرنے

والے کا سائل کرتا۔
الْمَجَانُ۔ بڑا محول۔ مفت۔ بہت۔ کافی

طَرِيقٌ مُنْجِنٌ۔ لمبا راستہ۔
مَجْرٌ، مَجْرَانٌ، مَجْرَعٌ وَمَجْرَعَةٌ وَمَجْرَعَةٌ

وَمَجْرَعَةٌ وَأَمْتَجَعٌ۔ التَّوْبُ۔ کپڑے
کا پڑنا۔ اَلْأَثَرُ۔ نشان کا مٹنا۔ اَلْأَثَرُ

کھڑے نشان ہونا۔
الْمَجْرُ وَالْمَجْرُ۔ پرانا بوسیدہ کپڑا۔

الْمَجْرُ۔ خالص چیز۔ وَالْمَجْرَةُ۔ اَلْمَجْرَةُ
کی زردی۔

الْمَجْرُ۔ بھوک۔ اَلْمَجْرُ۔ موٹا۔
الْمَجْرُ۔ بھوکا۔ صرنا باتوں سے خوش

کرنے والا۔ نہ کام سے۔
مَجْرَتٌ، مَجْرَتَةٌ۔ اَلْيَوْمُ۔ دن

کا گرم ہونا۔
مَجْرَتٌ، مَجْرَتَةٌ۔ فَلَا تُنَا۔ کسی کو

بہت غضب ناک کرتا۔
الْمَجْرَتُ۔ گرم دن۔ سخت چیز۔ عقل مند

ذہین۔ تیز فہم۔ خالص۔



ج. مُعْتَاءٌ وَمُخَوَّتٌ -

مَحْجِبَاتُ مَحْجَا - الرَّجُلُ - جلدی کرنا۔
 الْغُزْدُ أَوِ اللَّحْمُ - کڑی یا گوشت چھیننا
 اللَّبَنُ - دودھ پلانا۔ الرَّجُلُ - کھال
 کومنا تاکہ وہ نرم ہو جائے۔ السَّالُوا
 کنویں میں ڈول پلانا۔ شَيْئًا عَنْ شَيْئٍ
 پوچھنا۔ الرِّيحُ الْأَرْضَ - ہوا کا غبار
 اُڑانا۔

مَحْجٌ - س. مَعَجًا - الرَّجُلُ - مَبْهُوتٌ
لَوْ لَنَا -

مَا يَجْعَلُ مَعَايَا - وَمَا يَجْعَلُ -
بِالْمَوَالِكِ - الْمَعَايَا - مَعَايَا

محسن ان محسنًا۔ الجملہ۔ چپڑے کو
زیوم کرنے کے لیے ملنا اور رنگنا۔

الامحسّن - ماہر چہرہ رنگنے والا۔
مَحْسَنٌ اَنْ، مَحْسَنًا - المجلد - کھال پر

گوشت چھینا۔ الطعام۔ بیت کھانا
السَّيْلُ مَا مَرَّ عَلَيْهِ۔ بہاے جانا۔
مَحْشُوتٌ مَحْشُوتٌ مَحْشُوتٌ مَحْشُوتٌ

تو ار مار کر کسی کے چہرہ کی کھال چھین دینا۔
(وَأَمْحَشَنَّ الْحَرَّاءَ النَّارَ الْجَلْدَ)

کمال کو جلالا۔
ممتحش۔ جلالا۔ ذلک عَفْصًا۔ غصہ

سے بھر لیا جانا۔ القمر۔ چاند کا چھینا۔
النار۔ آگ کا جلنا۔
الحاش۔ گھبراہٹ کا۔

بُخَاشُ۔ آپس میں عہد کرنے کے لیے آگ
گئے گرد جمع ہونے والی جماعت۔

المَحَاشِ - جَلَّ ثَوَابُ سَنَةِ مَجُوشَ و
مُحِشَةَ - خَشْكَ سَالِ -

تیزدورنا۔ المذی بوح برجلہ۔ مذبح کا
تڑنا۔ بھان، اٹھنا، کھڑکنا۔

پسین۔ فُلَاحٌ مِنْ فُلَاحٍ۔ بھاننا۔
الْبُرُوقُ۔ بجلی کا چمکنا۔ اَللّٰهُ مَا بِكَ

زائل کرنا۔ الشَّيْءُ - ہر عیب سے پاک کرنا
الذَّهَبُ بِالنَّارِ - سونے کو صاف کرنا۔

الْيَمَانُ - بھالے کو صیقل کرنا۔
مَحْفَنٌ - ایشی کم کرنا۔ اللَّحْمُ - گوشت کو
بھنسنے سے روان کرنا۔ مَحْفَنٌ - ایشی

کسی کو آزمانا۔ آزمانا۔
اَمْحَصَّ مِنَ الْمَرْءِ صِمتِ یاب ہونا۔

اَمْ حَقَّتِ الشَّمْسُ - سورج کا گرہن
سے نکلنا۔

إِنْ مَحَصَ - الْوَسْمُ - وَرَمَ كَأَنَّهُ يَوْمًا -
فَالْمُحَصِّمُ يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ كَمَا تَدْرُسُ

سے نکل گیا۔
اُمْتَحَصَ - الظَّهِ فِي عَدُوِّهِ - ہرن کا دشمن

المُعَصَّ - مِنَ الْجِبَالِ وَالْأَوْدِيَةِ - زَم

المَحْصُ وَالْمُحْصَى وَالْمَحِيشُ وَ
الْمُحْوِشُ - مِنَ الْغَيْلِ - مَنْسُوطٌ

المَحَاصِلُ - چکنے والی بجلی - (الْمُحَصَّنُ -

مَحْضُ ك. مَحْوُضَةٌ - سَبُّ التَّوْبِيلِ

مَحْفَنٌ (س)، مَحْفَنًا وَامْتَحَنَ - خَائِبٌ
دُودھ پینا۔

مَحْفُوظٌ، مَحْفُظًا - فَلَنَا الْوُدَّ أَوِ النِّفْعِ
خالص محبت و دوستی کرنا - خالص خیر

خواهی کرنا۔ امحض الحَدِيثُ است۔
گفتاری کرنا۔
المحض مع من المنة المنة المنة المنة

دودھ دغیرہ - ج - میحاض -
المحض والمأحقض - خالص دودھ کا شق

رَجُلٌ مَّاحِقٌ - خالص دودھ والا۔
الْمُحَوَّنَةُ - سچی اور خالص نصیحت۔

المَحْضُوفُ - خَالِصٌ - مَوْتٌ مُخَوِّفَةٌ
وَفِئَةٌ مَمْحُوفَةٌ - جَانِزِي خَالِصٌ -

محط۔ ن۔ محطاً و محط۔ الوتر
تانت کو برابر کرنے کے لیے سونپنا۔
السَّوْفُ شَعْرٌ مِنْ أَيْمَنِ الْعَيْنِ

اسمہم - پیر پونا - امحط - بھیر
اونٹ کا دودھنا - السیف - تلوار سونہنا
الرمح - نیزہ کھینچنا - عامر ماحط -

مَحَقِّقَانِ، مَحَقَّقًا - ایشی - باطل کرنا۔ مٹانا

اللَّهُ السَّيِّئُ - لَهَا مَا - بَرَكْتَ لَهَا -
فَلَا نَا - هَلَاكَ كَرْنَا - اَلْحَرُّ - اَلشَّيْءُ جَلَانَا -
مُحْتَرِّ - اَلْحَا - قَرِيبُ اَلْمَكْرَمَاتِ -

امتحق۔ اُمّالُ۔ مال کا ہلاک و برباد ہونا۔

السَّجُلُ: کسی کے مال پر تنہا ہی پڑنا۔
الْقَمَرُ: چاند کا مہینہ کی آخری راتوں میں

تَمَحَقَّ وَانْمَحَقَّ وَامْحَقَّ وَامْتَسَقَّ -
مضمعا مزمعا - با طاء مزمعا - مضمعا - اُمتَحَنَ

الْحَرُّ - ایشی - جلانا - الثَّيْبَات - خشک
ہونا اور گرمی سے جلنا - التَّجَلُّ - قریب

المرگ ہونا۔ ایسی چیز کی خیر و برکت جاتی رہنا۔

المعقَّةُ - ہلاکت۔ المعاق والمعاق

وَالْمِصْحَاقُ - قمری ماہ کا اخیر یا آخری
تین راتیں۔

المَاحِقُ - نَارُ مَا حِقَّ الصَّيْفِ - موسم
گرمای شدت - یَوْمٌ مَا حِقَّ - سمعت

مَعَكَ - نَ - مَعَكَ وَمَعَكَ سَ،

مَحْكًا وَاَمْحَاكَ وَتَمَحَّكَ. الرجل
کلام میں جھگڑنا۔ بھاؤ کرنے میں جھگڑا کرنا۔

وَالدَّوْلَةُ - پانی بھرنے کے لیے ڈول

مَحْجَرٌ - کو بلانا۔
مَحْجَرٌ وَتَحْجَرٌ وَامْتَحَجٌ - انعام۔

مَحْجَرٌ - بڑی سے گودا لگانا۔
امْحَجْ - انعام۔ بڑی کا گودے دار ہونا۔

النَّشَاةُ - مونی ہونا۔ العَوْدُ - کڑی
کا تر ہونا۔ الزُّدْعُ - کمینتی کا پر منتر ہونا۔

الْمَخْ - گورا بھیجا۔ خالص۔ آنکھ کی پٹی

مَحْجَرٌ وَمَحْجَرَةٌ -
"لَا أَدْرِي لِأَمْرِكَ مَحْجَرٌ" میں تھار

کام میں بھلائی اور خیر نہیں دیکھتا ہوں
"هُوَ كَذِبٌ مَخِ الْقَوْمِ وَمُغْنَةُ الْقَوْمِ"

یہ قوم کے برگزیدہ ہیں۔
الْمَخْ - نرم۔ المَخَاخَةُ - بڑی کا وہ گولا

جو چوسنے سے منہ میں آئے۔
المَخْبِجُ - گودے دار بڑی۔ مَخَابِجُ -

مَخْرُوتٌ - دن، مَخْرُوتٌ وَمَخْرُوتٌ
السَّفِينَةُ - کشتی کا پانی کو آواز کے

ساتھ چرنا۔ مَخْرُوتٌ الْوَدْعُ - زمین
کو سیراب کرنا۔ السَّالِجُ - تیرنے والے

کا پانی کہ ہاتھوں سے چرنا۔ الذَّنْبُ
النَّشَاةُ - بھڑیے کا بکری کے پیٹ کو

پھاڑنا۔
مَخْرُوتٌ - ن. مَخْرُوتٌ - البَيْتُ - عمدہ

سامان لے لینا۔
امْتَحَرُوتٌ وَتَمَحَرُوتٌ وَاسْتَمَحَرُوتٌ - التَّيْبُ

ہوا کی طرف تگ کرنا۔ ہوا کی سمت میں
پھٹ کرنا۔

امْتَحَرُوتٌ - بڑی کا گودا لگانا۔ الشَّيْءُ -
اختیار کرنا۔ بَنَاتٌ مَخْرُوتٌ - بکے

سفید بادل۔
المَخْرُوتَةُ - منہ کی بدبو۔ او المَخْرُوتَةُ

وَالْمَخْرُوتَةُ - پسندیدہ چیز۔
المَاخِرَةُ - مَوْتٌ - المَاخِرُوتُ - کشتی۔

مَوَاجِدُ -

کرنا۔

المَحَالَّةُ - بڑی چیز۔ اُدْنُ کی پیٹھ کا مہرہ وہ
کڑی جس پر کھڑے ہو کر کھل کریں۔ (ج)

مَحَالٌ - اور اس کی جمع مَحَالٌ۔
لَا مَحَالَةَ - ضروری۔ لابد۔ بیشک۔

المَحِلُّ - دھنکارا ہوا یہاں تک کہ ٹھکے
دُخُلُ مَحِلٌ - مکار۔ حیل باز۔

المَحَالُ - مکار۔ دھوکے باز۔ شیطان۔
المُتَحَالِلُ - لمبا آدمی یا اُدْنُ - فُلَانٌ -

مُتَمَحِّلَةٌ - وسیع ریستان۔
المُتَحَالَّةُ - دودھ کا مشکیزہ۔

مَحْنٌ - مَحْنٌ - فُلَانٌ - آزمانا۔ کُثْبٌ -
سُوْطًا - کورے بازو۔ المَفْصَلَةُ - چاندی

کو تھاکر صاف کرنا۔ اِسْمٌ - المَفْصَلَةُ - (الْوَبْ)
کپڑا پہن کر پرانا کرنا۔ فُلَانٌ - سَفِيْئًا - دینا۔

المَكْرُوتُ - کنویں کی مٹی لگانا۔ النَّاظَةُ -
اُدْنُی کو چلا کر تھکانا۔ (وَمَحْنٌ) - الایم

چمکے کو نرم کرنا۔
اِمْتَحَنَ - الشَّيْءُ - چیز کو آزمانا۔ اَلْقَوْلُ -

غور کرنا۔ سوجھنا۔ المَفْصَلَةُ - چاندی کو
تھاکر صاف کرنا۔

المَحْنُ - مع۔ ہر نرم چیز۔ چلنے یا کام کی
تھکن۔ عَطِيَّةٌ - مَحْنٌ -

المَحْنَةُ - آزماش (ج) مَحْنٌ - مَحْنٌ
يَبْحُوْا وَيَمْحُوْا مَحْنًا وَمَحْنًا - ایشی

مٹنا۔
تَمَحْنٌ تَمَحْنِيًّا - مِنَ الْقَوْمِ - معافی کی درخواست

کرنا۔
المَحْوُ - مع۔ چاند کا سیاہ دارغ۔

المَحْوَةُ - عار۔ بے عزتی۔ بارش۔ لمحہ۔
المَحْوَةُ - مغربی یا شمالی ہوا جو بادل کو اڑا

دیتی ہے۔
المَحْحَاةُ - پونچھنے کا چھتھرا۔ تولیہ۔

مَحْحَاةٌ يَمْحَاةٌ وَيَمْحُوْهُ مَحْحَاةٌ - مٹانا۔
مَحْحُوْتٌ - مَحْحُوْا وَتَمَحْحُوْا وَتَمَحْحُوْا

مَحْحُوْا -

مَحْتٌ - مَحْتٌ وَمَحْتٌ وَمَحْتٌ -
مَحْتٌ مَحْتَةٌ - فُلَانٌ - جھگڑنا۔

تَمَحْتٌ - آپس میں جھگڑنا۔
المَحْتِيكُ - جھگڑالو۔ بد خلق۔

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ وَصَحْلٌ
وَمَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

زورہ ہونا۔ مَحْتٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -
مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ - مَحْلٌ -

<p>کھینچنا۔ اللہ عموماً۔ زندگی دراز کرنا۔ مِنَ الدَّوَاۓ۔ دوات سے روشنائی لینا۔ اَلْمَعْدُوۡدُ لِبَسْمِ۔ دس یا سمندر کا چڑھنا۔ پانی بڑھنا دراز ہونا۔ مَدَّ نَظْرَهُ اِلَیْہِ۔ اس نے اس کی طرف اپنی نگاہ کی۔ مَدَّ اَلْاُذُنَ فِی زَمَیْنٍ میں مٹی یا کھاؤ ڈالنا۔ اَلْحُوۡرُ حِرَتٌ کو کھینچ کر چڑھنا۔ اَلْبَدَلُ۔ پانی میں جو با آنا یا تیل ملا کر پینا۔ اَللَّیۡسَ وَاجِبٌ یَّا سَلٰطِیۡطُ۔ چراغ میں تیل ڈالنا۔ فِی السَّیۡوِ۔ گدڑا۔ مَدَّ وَاَصَدَّ الْعَمَلُ مَهَلَت دینا۔ فریاد رسمی کرنا۔ اعانت و مدد کرنا۔ لَا فِی عَیۡتِہٖ۔ گمراہی میں زیادتی کرنا۔ اَلْعَبۡدُ۔ فرج کو کمک پہنچانا۔ اَلنَّهَارُ۔ دن کا چڑھنا۔ الدَّوَاۃُ۔ دوات میں روشنائی یا پانی ڈالنا۔ زیادہ کرنا۔ اَمَدٌ فِی مَشِیۡہِ جَالٍ میں ٹسکا۔ ناز و انداز سے چلنا۔ اَمَدٌ اَللّٰہُ فِی خَیۡرٍ۔ زیادہ کرنا۔ اَحَلَّہُ دَرَارَ کرنا۔ مؤخر کرنا۔ فَلَا تَاۡمَسَّالَ۔ دینا۔ اَلْبَعِیۡرُ۔ اُدٹ کو جو یا تیل یا آٹا ملا ہو پانی دینا۔ اَمَدٌ اَلْجُرُوحُ۔ زخم میں پیپ پڑنا۔ مَدَّ۔ اِشِیۡءُ۔ پھیلانا۔ مَادَّةٌ مَدَّ اِذَا مَادَّہُ۔ یعنی مَدَّہُ مال مٹول کرنا۔ مَادَّةُ الثَّوْبِ۔ ایک دوسرے کے کپڑے کھینچنا۔ نَمَادًا۔ الثَّوْبِ۔ بل کر کپڑا کھینچنا۔ تَمَدَّدَ اِذَا مَدَّ۔ پھیلنا۔ اَنکڑائی لینا۔ اَمْتَدَّ بِہُمُ السَّیۡرُ۔ کھینچ جانا دراز ہونا۔ فِی مَشِیۡتِہٖ۔ ناز و انداز سے چلنا۔ اِلٰی الشَّیۡءِ۔ دیکھنا۔ اَلنَّهَارُ دِنٌ کَا دَہَا ہونا۔ اِسْتَمَدَّ۔ الْقَوَمُ اَلَّذِیۡ عَلَی الْعَدُوۡۃِ توہم کا امیر سے دشمن پر مدد مانگنا۔</p>	<p>السَّیۡفُ۔ تلوار سونٹنا۔ اَلْمَخَاطُ رَمِیۡتٌ مَدَّ اِلَیۡہِ۔ السَّیۡفُ۔ بچہ کی رَمِیۡتٌ مَاتَ کرنا۔ اَلْبَیۡدُ۔ مارنا۔ مَخَطٌ مَعُوۡظٌ اَلسَّخْمُ۔ تیز کا پار ہونا۔ مَفَتٌ۔ مَخِطٌ۔ اَلْوَلَدُ۔ بچہ کو تاک پونچھنا۔ اَسْخَطَ السَّخْمُ۔ تیز کو پار کرنا۔ اِمْتَخَطَ وَ الشَّیۡءُ۔ چھین لینا۔ السَّیۡفُ سَوَّیۡتَا۔ اَمْتَخَطَ وَ تَمَخَطَ۔ رَمِیۡتٌ مَاتَ کرنا۔ تَمَخَطَ۔ اَلرَّجُلُ۔ چلنے میں روکھڑا۔ اَلْمَخَطُ۔ مس۔ راکھ۔ چھوٹا کپڑا اَلْمَخَاطُ۔ رَمِیۡتٌ۔ ناک کی ریش۔ ج۔ اَمُخِطَۃٌ۔ مَخَاطُ السَّیۡطَانِ۔ دیویر کے وقت مکاری کے جالے کی طرح اوپر سے نیچے آتی ہوئی دکھائی دینے والی چیز۔ اِسِسَ کُوۡمُحَاۡطُ الشَّمْسِ اِذَا لَعَابَ الشَّمْسُ مَیۡمَیۡ کَتَمَہِ۔ اَلْمَخَطُ رَمِیۡتٌ۔ سردار۔ ج۔ اَمُخَاطُ اَلْمُخِطَۃُ۔ ایک دفعہ کا ناک جھکاؤ۔ اَلْمُخَلُّ۔ بڑے بڑے پتھر سے پالوڑنے کا آلہ۔ ج۔ اَمُخَالٌ وَ مَخُولٌ۔ مَخْمَخَہُ۔ گودا رکھنا۔ مَخْنُ اِن، مَخْنَا۔ دونا۔ اَلْبُکْرُ۔ کنویں سے پانی نکالنا۔ اَلْعُوۡدُ۔ لکڑی چھیننا۔ مَخْنُ۔ ن۔ مَخْنَا وَ مَخُوۡنَا۔ لمبا ہونا۔ مَفَتٌ۔ مَخْنُ وَ مَخْنُ۔ مَوۡثُ۔ مَخْنُ وَ مَخْنُۃُ۔ اَلْمِخْنُ۔ لمبا آدمی۔ اَلْمِخْنُۃُ۔ گھڑا مَیۡمَی۔ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلْاَمْرِ۔ ہٹانا۔ دُور کرنا۔ اَمُخِی اِمُخَاۡ وَ اِمُخِی اِمُخَاۡ وَ تَمُخِی وَ اِمُتَخِی۔ اَلْاَیۡہُ۔ عذر کرنا۔ مَیۡمَی۔ بڑی ہونا۔ مَیۡمَی۔ بیزار ہونا۔ اَلْعَظَمُ۔ بڑی کا گودا رکھنا۔ مَدَّ ن، مَدَّا۔ اَلشَّیۡءُ وَ اَلشَّیۡءُ۔ پھیلانا۔</p>	<p>اَلْمَاخُوۡدُ۔ بدکاری کی مجلس۔ آوارگی کا اودھ۔ بدکاری کے اڈے کا مَنَوٰی۔ ج۔ مَوَاخِیۡدُ مَوَاخِیۡدُ مَخَوۡنٌ مَخَوۡنَۃٌ۔ چھوٹ بولنا۔ جھوٹ تراشنا۔ مَخْنُ۔ ن ت م ن۔ مَخْنَا۔ اَللَّیۡنُ دُودُہ بولنا۔ مَفَتٌ مَعُوۡظٌ رَمِیۡتٌ وَ مَخُوۡضٌ۔ اَلشَّیۡءُ۔ زور سے ہلانا۔ اَلرَّکۡبُ۔ رائے پر غور کرنا۔ اَلدَّوۡۃُ۔ پانی پھرنے کے لیے دُول کو ہلانا مَخْمَضٌ۔ س۔ مَخَامَاۡ وَ مَخَامَاۡ وَ مَخْمَضٌ وَ مَخْمَضٌ وَ تَمَخَضَتْ اَلْحَامِلُ۔ حاملہ کا دُودُہ میں مبتلا ہونا۔ مَفَتٌ (مَخَانِیۡسُ) ج مَخْنُ وَ مَوَاخِیۡنُ اَمَخْنُ۔ دُودُہ کے بلوئے جانے کا دقت قریب آنا۔ بچے چھنے کے قریب اُدُنِیۡلُ دالنا ہونا۔ اَمْتَخَنَ وَ تَمَخَنَ۔ اَللَّیۡنُ۔ دُودُہ کا مَیۡمَی نَکَا ہوا ہونا۔ اَلْوَلَدُ۔ بچہ کا مال کے پیٹ میں پھرنا۔ تَمَخَمَتِ۔ اَلشَّمَاۡ۔ برسنے کے قریب ہونا تَمَخَنَ اَلدَّہْرُ وَ اَلْفِتَنَۃُ۔ زمانہ نے نساہ پیدا پیدا کر دیے۔ اِسْتَمَخَصَتِ اَلْحَامِلُ۔ حاملہ کا دُودُہ میں مبتلا ہونا۔ اَلْمَخَانُ۔ دُودُہ۔ اَلْمَخَانُ۔ دُودُہ جب تک بولتی میں رہے۔ اَلْمِخْنُ وَ اَلْمِخْنُۃُ۔ شکیزہ۔ دُودُہ بولنے کا برتن۔ بولتی۔ ج مَخَانِیۡنُ۔ مَخَطُ دِنٍ، مَخَطَا۔ اِشِیۡءُ۔ کھینچ کر لمبا کرنا اَلجَمَلُ بِہِ۔ تیز دُورنا۔ اَلرَّجُلُ فِی اَلْاَرْضِ۔ تیز چلنا۔ اَلْوَلَدُ۔ باپ کے مشابہ ہونا۔ غُرَسٌ فُلَانٌ۔ پردے کو پانی پلانا اور اس کی غور و پرداخت کرنا۔</p>
--	--	--



الدَّادَةُ - دوات سے روشنائی لینا -
 المَدَد - مدد - سیلاب - ج - مَدَدٌ - حد -
 منتهی - مَدَدُ الْبَحْرِ - سمندر کے
 پانی کا خشکی کی طرف بڑھنا -
 المَدَدُ وَالْمَدَّةُ - مدد -
 المَدَدُ - ایک پیانہ جس کی مقدار اہل حجاز کے
 نزدیک ۱۲ اور اہل عراق کے نزدیک ۲
 رطل ہے - ج - اَمْدَادٌ وَصِدَادٌ
 وَ مَدَدَةٌ -
 المَدَّةُ - مَدَدٌ کا اسم - وقت - میں قلم
 کا ایک مرتبہ دانا -
 المَدَّةُ - عرصہ - زمانہ کا ایک حصہ کم ہو یا
 زیادہ - زمانے یا مکان کی غایت و انتہا
 ایک مرتبہ قلم سے لی ہوئی سیاہی - ج -
 مَدَدٌ -
 المَدَّةُ - پرپ -
 المَدَدُ - مدد - ضرر یا درسی -
 المَدَدَانُ وَالْمَدَاتُ - کھاری پانی
 یا بہت کھاری پانی -
 المَدَادُ - مدد - روشنائی، کھاؤ - چراغ
 کا تیل - مثال و طریقہ -
 المَادَّةُ - جس سے کسی چیز کی ترکیب ہو -
 مادہ خلط - لگاتار - زیادتی - ج -
 مَوَادٌّ وَمَادَاتٌ -
 مَوَادُّ التَّلْعَةِ - لغت کے الفاظ - مَوَادُّ
 الْعِلْمِ - علم کی بحثیں -
 المَادِّي - مادہ کی طرف منسوب - مادہ
 پرست - صرف مادہ کا وجود ماننے والا -
 المَادَّةُ - مانا -
 الْأُمْدُودُ - عادت -
 المَدِيدُ - کھینچا ہوا - لیا - ٹوٹ - مَدِيدٌ
 مَدَّةٌ مَدِيدٌ - لمبی مدت - ج - مَدَدٌ
 چارہ - علم عروض کی ایک بحر کا نام ہے -
 المَدِيدُ - تقویر اعرصہ -
 المَدَّةُ - مصدر می - چیز کے کھینچنے کی جگہ -

المُتَدِّحُ - علم عروض کی ایک بحر کا نام المُتَدُّ
منع۔ بھیلنا ہوا۔ لمبا کیا ہوا۔
مَالٌ مُتْدَوِدٌ - بہت مال۔ علم صرف میں ہر
وہ اسم معرب جس کے آخر میں حمزہ ہو اور
اس سے پہلے الف زائد جیسے صحراء۔
مَدَحَہ ان، مَدَّ حَادِ مَدَحَہ - تعریف
کرنا۔ مَادَحَہ - تعریف کرنا۔
نَمَدَحَ - موجود نہ ہونے والی صفات پر فخر کرنا
خود بخود تعریف کرنا۔ الوَجَلْ - تعریف
کرنا۔ اِلَى النَّاسِ - لوگوں سے تعریف
چاہنا۔
اِمْتَدَحَ - فَلَانًا - تعریف کرنا۔ رَوْ
اَمْتَدَحَ - دسیع ہونا۔
نَمَادَحَ - القوم - ایک دوسرے کی تعریف
کرنا۔
الْمِدْحَةُ - مَدَحَ کا اسم۔ تعریف۔ مِدْحٍ
الْمِدْحِي - ع۔ مَدَائِحُ وَالْمُدْحَةُ
روح۔ آمادِیح - تعریف۔
مَدَحَہ ان، مَدَّ خَا - بڑا ہونا۔ فَلَانًا
کسی کی پوری پوری مدد کرنا۔
مَادَحَہ - خیر یا شر پر کسی کی مدد کرنا۔
نَمَدَحَ - تکرار کرنا۔ اونٹ کا بہت
چربی والا ہونا۔
نَمَادَحَ وَاُمْتَدَحَ - عَلَيْهِ - ظلم کرنا۔
عَنْهُ - سستی کرنا۔
الْمَادِحُ وَالْمِدْحِيُّ - مغز
معظم۔
الْمَدْوَنُ وَالْمَتَادِنُ - جلدی کام کرنے والا
مَدَرَان، مَدَّرَاد مَدَار - امکان
- کسی بجگ کو مٹی سے لپیٹنا۔ الْحَوْضُ -
حوض کی تھکر کی جھری کو مٹی سے بند کرنا۔
مَدَرَ - بیٹ کرنا۔
مَكْرَسَ اس، مَكْرَسًا - بڑے پیٹ والا
ہونا۔
تَمَدَّرَ - مٹی سے لبب جانا۔

اَمْدَسَ - لیپنا۔
الْمَدْسُ - مہم۔ مٹی کا ڈھیللا۔ بغیر ریت کی
کیچڑ شہر و دیہات۔
الْمَدْرَاةُ - مٹی کا ایک ڈھیللا۔ مَدْرَاةُ
الْمَجْلِ - آدمی کا گھر۔ فَلَانٌ سَيِّدُ
مَدْرَاتِهِ - فلان اپنے شہر کا
سرور ہے۔
الْمَدْرِيَّةُ - دیہاتی۔ الْأَمْدَرُ - بڑے
پیٹ والا۔ بہت پائمانہ کرنے والا۔
جو روک بھی نہ سکتا ہو۔ دونوں پہلوؤں
سے خاک آلودہ۔ غبار آلود۔
الْمُدْرَأَةُ - بڑے پیٹ والی۔ ربحو۔
يَتَوَّمِدُّ مَاءً - شہری لوگ۔
الْمُدْرَاةُ وَالْمُدْرَاةُ - مٹی لینے
کی جگہ۔ اِبِلٌ مُدْرَاةٌ - موٹے اونٹ۔
مَدَسْنَن، مَدَسَا - الْجِلْدُ - چمڑے
کو ملنا۔
مَدَّ شَيْئًا، مَدَّ شَيْءًا - عَيْنُهُ - بھوک
وغیرہ سے آنکھ کا تاریک ہونا۔ تَحْدِهَانَ -
بیکڈ۔ لاکھ کا ڈھیسے پھول اور کم گوشت
والا ہونا۔ صفت۔ اَمْدَشْ - مَرْت۔
مَدَّ شَيْءًا - ح - مَدَّ شَيْءًا -
مَدَّ شَيْءًا، مَدَّ شَيْءًا - مِنَ الطَّعَامِ -
لَقُوْرًا کھانا۔ لِغَلَاظِنٍ مِنَ الْعَطَاءِ -
لقوڑا دینا۔
مَدَّ شَيْءًا وَمَدَّ شَيْءًا - دینا۔ مَرْجُلٌ -
مَدَّ الشَّيْءَ الْبِيدَ - چور۔
الْمَدَّ شَيْءًا - مہم۔ بھوک یا گرمی سے آنکھ کا
تندھیا نا۔ لاکھ کے پھول کی گستی اور
دلپاں۔ عورت کے پستان میں گوشت
کی کمی۔ پاؤں کی ٹیخن۔ چہرہ کی سرخی اور
خشونت۔ بے وقوفی۔ مَا يَهْ مَدَّ شَيْءًا
أَوْ مَدَّ شَيْءًا - اس کو کوئی بیماری نہیں۔
الْمَدَّ شَيْءًا - بیوقوف۔ ناریل کا خول جس
کا مغز نکال لیا گیا ہو۔



الْمَدِينَةُ - مطعون نسب والا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - الصَّخْرَةُ -

چٹان توڑنا۔

مَدَنِيٌّ - بِالْمَدَنِيِّ - سر پر دمال یا حمام

باندھنا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - بِالْمَدَنِيِّ - آنا

کرنا۔ الْمَدِينَةُ - شہر میں آنا۔

مَدَنِيٌّ - الْمَدَنِيَّةُ - شہر بنانا۔ آباد کرنا۔

تَمَدَّنَ - شالستہ و تہذیب ہونا۔

تَمَدَّنَ - آسودہ حال ہونا۔

الْمَدِينَةُ - شہر - تقصیر۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - بِالْمَدَنِيِّ -

الْمَدِينَةُ - مدینہ منورہ جس کا نام یثرب

سے پہلے یثرب تھا

مَدِينَةُ السَّلَام - بغداد۔

الْمَدِينَةُ - بغداد کے قریب ایک شہر

جس میں کسری کا الوان تھا۔

الْمَدِينَةُ - شہر - الْمَدَنِيَّةُ - ایک بت کا نام

مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - تعریف کرنا۔ صفت

(مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - مَدَنِيَّةٌ -

تَمَدَّنَ - الدَّجَلُ - خود بخود تعریف کرنا۔

تعریف کرنا۔

مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - فلانا - مہلت دینا

فَلَانٌ لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ - فلاں کا

غایت میں کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔

أَمَدِيٌّ - أَمَدٌ - فلانا - مہلت دینا۔

الدَّجَلُ - زیادہ عمر والا ہونا۔ زیادہ

دودھ پینا۔

مَدَنِيٌّ - فِي عَيْبِهِ - گمراہی میں درپیک ہونا

اس پر اصرار کرنا۔ فِي الْإِفْرِ - انتہا تک

پہنچنا۔ بِنَا السَّفَرُ - سفر کا دراز ہونا۔

الْمَدِينَةُ وَالْمَدِينَةُ - الْمَدِينَةُ - غایت

حد۔ فاصلاً - کہتے ہیں "دَارِي مَبِيدٌ"

دَارِي - یعنی میرا گھر اس کے گھر کے

سامنے ہے۔

الْمَدِينَةُ وَالْمَدِينَةُ - الْمَدِينَةُ - بڑی

پھری۔ مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ -

مَدَنِيَّةٌ -

الْمَدِينَةُ - ۱۹ صدی کے برابر کا ایک پیمانہ۔ ۲۰

أَمَدٌ -

الْمَدِينَةُ - جوڑ - خوس کا ٹیکل ہوا گندہ پانی

(۲۰) أَمَدِيَّةٌ -

الْمَدِينَةُ - اسم تفصیل۔

فَلَانٌ أَمَدٌ إِذَا الْعَرَبُ - فلاں لوں

میں سب سے زیادہ مغز سے۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی پھر

کا کشادہ ہونا۔ پھولنا۔

تَمَدَّنَ - الْإِنَاءُ - برتن کا بھرننا۔ الْبَيْعُ

خرید و فروش کا لینا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔


مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔

مَدَنِيٌّ، مَدَنِيَّةٌ، مَدَنِيَّةٌ - ایشی - کشادہ و فراخ ہونا۔



کرنے والا۔ مَدَّیْل کی جیسے مَدَّی۔
 الْمَدَّیْلُ وَالْمَدَّیْلُ۔ وہ شخص جس کا نفس کسی
 چیز سے بھر جائے اور اس کو چھوڑ کر کے
 دوسری چیز کی امید لگا لے۔
 الْمَدَّیْلَةُ۔ گھوڑ کی گھٹلی۔ چٹان کا ٹوٹا۔
 الْمَدَّیْلُ۔ دق ہو کر راز بتانے والا۔
 بہت بے حس یا ٹول والا۔

مَنْ مَنَ مَنْ مَنَ - الرَّجُلُ - جھوٹ
 بولنا -
 الْمَنَ مَا ذُ - بہت چلانے والا - باتونی -
 مومت - مَنْ مَا ذُ -
 الْمَنَ وَمِنَ - جھوٹا -
 مَنَ مَنَ مَنَ مَنَ مَنَ مَنَ -
 الْمَنَ مَنَ مَنَ مَنَ مَنَ مَنَ -
 جھوٹا -

الحمدی - پانی جو حوض کی نالی سے نکلے -
 ہندی ، جو معابت یا بوسہ لینے کی وقت
 نکلے -

الحیثیؑ۔ حوض سے پانی نکلنے کی نالی۔
 المادویؑ۔ شہید۔ ہر لوہے کا ہتھیار۔
 المادیتہؑ۔ حلق میں جلد اترنے والی۔
 شراب۔ نوم یا سفید زردہ۔

الْمَدِينَةُ وَالْمَدِينَةُ - شَيْخٌ - مَدِينَةٌ
مَدِينَةٌ - مَدِينَةٌ - مَدِينَةٌ - مَدِينَةٌ
مَدِينَةٌ - مَدِينَةٌ - مَدِينَةٌ - مَدِينَةٌ

رستی باندھنا۔
 مَوْبِز مَوَّاد مَوَّا۔ یفلان۔ صفا
 کا غلبہ کرنا۔ صفت۔ (مَمْرُوم)
 مَوَّ۔ سون۔ مَوَّارۃ۔ کڑوا ہونا۔ تلخ ہونا
 مَوَّک۔ اسٹی۔ تنبغ کرنا۔ کڑوا ہونا۔ زمین پر
 پھیلانا۔

اَمَرَ - فَلَا لَا يَكُنْ ۱ - كُنْ ۲ - اَلْحَبْصُ مُنَا
 بھانپنے کے لیے ہاتھ پائی کرنا۔
 اَمَرَ الشَّيْءُ - چیز کا کروا کرنا۔
 اَمَرَ عَلَى الْجَسَدِ - کسی کو مل پر سے

گزرنا۔ بیدار علی الشیخی۔ کسی چیز پر ہاتھ
پھیرنا۔ کہتے ہیں۔ "مَا أَتَدْرُلَانَّ دَمَا
أَخْلَى" اس نے نہ کوئی کر دی بات کی۔ نہ
بیٹھی۔ "مَا يُبْزِدُ دَمَا یَبْجَلِ" وہ نہ بُرائی
کرتا ہے نہ نیکی۔

مَا زَمَوْنَا وَمُمارَّةٌ عَلَى الْأَرْضِ - كَيْفِيَّةُ
الرُّجُلِ - بَھیار نے کسے لیے لیں۔

اُمْتَرَ بِمِ وَعَلَيْهِ - كُذِّرْنَا -

نہات۔ اَلْقَوْم۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا
نہات۔ اَبِیْہُمْ۔ ایک دوسرے سے دشمنی
رکھنا۔ ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔

اِسْتَلَمُوْا - گزرا - جانا - ایک حالت یا طریقہ پر
 بانی رہنا - ہمیشہ کرنا - ہمہ عوارف - ۱ -

برقرار رکھنا ثابت و باقی رکھنا۔ الرجل آدمی کے کام کا استوار و درست ہونا۔

البتی، کروا پانا۔ بالشیئی۔ حملہ کرنے میں قوی ہونا۔

المُرَّ - مم. رستی - پھاوڑا - سیلیمہ -
المُرَّ - کڑوا - درخت کا گوند -

مَرَّةً ثَمَامِي - اندازن -
الْمَرَّةُ - ایک بار - ج - مَرَّةٌ مَرَّةً

مِوَرٌ وَمُرْوَرٌ وَمَرَاتٌ مِرَارٌ
وَذَاتُ الْمِرَارِ - کئی بار - اکثر کبھی کبھی -

الموتیہ - قسم - کسی چیز کی دائمی حالت - حالت
مضبوطی - ذوات - رستی کی لڑی - ج -

[illegible]

بجلیں۔ ایک قسم کی سبزی (۱۰) مٹو و امٹار

المأمرات - يتا - ج. مآثر ومآثرات -

الہامی و وحی کی گنجینہ - گنجینہ ایسی کہ جس سے ہر انسان کو نصیب ہو۔

دانه - نازک لونڈی -

المُحَرِّسُ - چپٹی - ایک قسم کی دوا۔
المُحَرَّمُ - ایک کر دمی بوٹی۔

المَرْيُورُ والمَرْيُورَةُ - بختہ ارادہ - مضبوط
بہی ہوئی رسی - دھن "مَرْيُور" - مُستقل

مراجع آدمی - پختہ ارادہ والا - الہامی مدد -
عزت نفس - رسی کی لڑی - ح - مؤید

الْأَمْرُ - اسم لفعل - زیادہ گڑبہ - زیادہ
مستقل مزاج -

الْأَمْرَ الْبَیِّنَ - دد کر دی چیزیں معسوس بڑھاپا۔
لَقِيَ مِنْهُ أَمْرًا بَیِّنًا - اس نے اس سے

بہت تکلیف پائی۔
الطمرہ - گذرگاہ - الحمرہ - معمر - بہت مضبوط

بہی ہوئی رہی۔
مرا دھڑکیں دس، دھڑکیں دس، دھڑکیں دس۔

الطعام۔ کھانے کا حشو و شکار ہونا۔
مَرَأًن، مَرْءَا۔ الرَّجُلُ۔ کھانا۔

(وَأَمَّا) الطَّعَامُ فَلَانَا - کھانے کا
 کسی کو نافع و مفید ہونا۔

میرا ہی (س) مَآءُ - زمانہ طرز کا ہونا۔
ہمڑ (ک) مُسُوْعَا - مردیت والا ہونا۔

مَرَّ أَلَا كَيْسِي كَوْنُ هَئِذَا مَرَّيَا كَهْنَا۔
(مَرَّ أَلَا) ایسی کا اچھی آب و ہوا والی ہونا۔

اسمرا - بناوٹی جوان مرد بننا۔ صاحب مروت
ہونا۔

ایسٹروا: انتقام لہا کے لومریڈاریا
خوش گوار سمجھایا پانا۔

مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ، مَرْدُونٌ بَعْدَ سُنَا
گیا یہ تفسیر کے بعد

مَوْت - اِمْرَاۃٌ ح نِسَاءٌ وَنِسْوَةٌ
(مِنْ غَدِ بَعْظُمَا)

المُرُوءَةُ - جو ان مردانہ صفات - نخوت - کبھی

المہرئی - نرخرہ ج۔ مہر دے دو آخری لے۔
 "صمیماً مہرباناً" خدا کے پیوہاں تم کو مفید ہو۔



مَرَات - (من) مَرَاتًا - ایشیا - نرم کرنا۔

المَرَاتُ مِم - (دو المَرَاتُ) سبزی سے خالی
- بیابان - اَرْضُ مَرَات - سبزی سے خالی
زمین - مَرَاتُکَ وَمَرَاتُکَ دَیْمًا
مَرَجَلُ مَرَات - وہ شخص جس کے ایڑوں
پر بال نہ ہوں۔

اَرْضُ مَرَاتُکَ - بے سبزی والی
زمین۔

مَرَاتُ (من) مَرَاتًا - ایشی - نرم کرنا
الصَّبِيْ اَصْبَعًا - بچہ کا انگلی چبانا۔
تَدْبِيْ اَمَه - ماں کے پستان چوسنا۔
الرَّجُلُ الرَّجُلُ - مارنا۔ الدَّاءُ
فِي الْمَاءِ - پانی میں دوا لگوانا۔

مَرَاتُ (س) مَرَاتًا - علی الخصام - صابر و
بردار ہونا۔ صفت۔ مَرَاتُ
مَرَاتُ (ج) مَرَاتُ - مَرَاتُ
الشَّوْیْدُ ثَرِیدٌ کَاچُورَاکَرْنَا - بیزہ ریزہ
کرنا۔

مَرَجُ (س) مَرَجًا - الْأُمُودُ الْعَرَبُ
والکامانہ والیدین - خراب ہونا
ناسد ہونا۔ الْعَاثَمُ فِی الْأَصْبَعِ
انگوٹھی کا انگلی میں ڈھیل ہونا۔

مَرَجُ (ن) مَرَجًا - الدَّابَّةُ - جانور کو
چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑنا۔

مَرَجَتِ الدَّابَّةُ - جانور چراگاہ میں
چرنا۔ مَرَجَ لَسْتُکَ فِی اَعْرَاضِ النَّاسِ
اس نے اپنی زبان لوگوں کی مذمت و
غیبت کے لیے چھوڑ دی ہے۔

مَرَجَ الْکَذِبُ جھوٹ میں ملوث ہونا
السلطان رَعِیَّتِهِ - نسا کرنے دینا۔
الامر کام کو مضبوط نہ کرنا۔ ضائع کر دینا۔
اَمْرَجَ الدَّابَّةُ - جانور کو آزادی
سے چرنے کے لیے چھوڑ دینا۔ ایشی
طانا۔ العهد - عہد پورا نہ کرنا۔

المَرَجُ مِم - چسپاں گاد۔

ج مَرْدُج -

المَرَجُ ن - بہت بھرکنے والا شعلہ۔

المَرَجُ ن - جھوٹا آدمی۔ بکواسی۔

المَرَجَان - چھوٹے موتی۔

واحد (مَرَجَان) مولگا۔

المَرَجُ - سفید چھوٹی بڑی جو سینک کے

درمیان ہوتی ہے۔ ج اَمْرَجَہ۔

اَمْرُ مَرَج - گر برادر بے زینب کام۔

سهم مَرَج - ہلنے والا تیر۔

المَرَج - بے دھنگا۔ نااہل۔

مَرَجُ (س) مَرَجًا مَرَجَانًا - الزرعُ

کھیتی میں بالی آنا۔ خوشہ نکلنا۔ السَّحَابُ

بادل کا بارش برسانا۔ مَرَحَتْ عَیْنُکَ

آنکھ کا خراب ہونا اور پانی بہنا۔ العین

بیمار کھانا دنا۔ اھا۔ آنکھ کا پانی بہنا۔

مَرَجُ الرَّجُلُ آدمی کا بہت خوش ہو کر

انہانا۔ ناز سے چہنا۔ صفت (مَرَجُ)

ج مَرَجی و مَرَجی و مَرَج - ج۔

مَرَجُونَ۔

مَرَج - الْعِدْدُ - چرے پر تیل لگانا۔

المَزَادَةُ الْعِدْدُ - نئی مشک کو

پانی سے بھرنا۔ البُر - گہیوں صاف

کرنا۔ المَهْر - بچے کو سدھانا۔

الرجل کسی کا بڑی تنگ میں شامل ہونا

اَمْرَجَہ - خوش کرنا۔ المَرَجُ - خوشی و

شادمانی۔ اترابٹ - مَرَجی - کلمہ تعجب

ہے۔ جو نیز انداز کی کامیابی پر بولا جاتا ہے

المَرَجی - بڑی جنگ۔ المَرَجَہ -

مَرَج کا اسم نوع - خشک انگور دن کا

ڈھیر۔

المَرْدُج - شراب۔ چالاک گھوڑا۔

عمدہ مکان۔

المَرَجُ والمَرَجُ حِیثُ و خوش

بہت آنسوؤں والی آنکھ۔ زرخیز زمین

المَرَجُ - مغم - ستون پر سے لگی ہوئی

انگور کی پیل۔

المَرَجُ - بہت خوش و شادمان۔

مَرَجَب - فلاں و سپہ۔ مَرَجَبَا کنا۔

خوش آمدید کنا۔ اللہ فلاں و سعت

د فراخی میں رہنا۔ ہ وسعت کی طرف

بلانا۔

مَرَجُ (ن) مَرَجًا - مذاق کرنا۔

جَسَدُکَ بِالْمَدْهِنِ - جسم پر تیل لگانا۔

مَرَجُ مَرَجًا - العَرَجُ - لمبی ساخوں اور

اچھے پتے والا ہونا۔ صفت (مَرَجُ)

مَرَجًا تیل لگانا۔

مَرَجُ دَامَرَج - الْعَجَبُ - ایسے کو

پانی سے پتلا کرنا۔

تَمَرَج - بِالْمَدْهِنِ - خود پر تیل کی مالش

کرنا۔

المَرَجُ مِم - ایک قسم کا درخت۔

المَرْدُجُ دُہ چیز جس سے مالش کی

جائے۔

المَرَجُ ن - مَاءُ مَرَج - بننا ہوا پانی۔

المَرَجُ والمَرَجُ - تیل سے مالش کیا ہوا

اُحْم - نرم پتلا درخت۔ المَرَجُ مِم ایک

سیارہ ستارہ۔

المَرَجُ - دم - المَرَجُ - سینک کے

اندہ کا چھوٹا سینک۔ ج اَمْرَجَہ۔

تَوْرَا مَرَج - سُرخ و سفید نقطوں والا

پیل۔

مَرْد - (ن) مَرْدًا مَرْدًا رک مَرْدًا

و مَرْدًا نافرمان و سرکش ہونا۔

ہمسروں سے آگے نکلنا۔ مَرْدَ عَلٰی

النفاق و نحوہ - نفاق پر جے رہنا۔

مَرْدَ (ن) مَرْدًا - ایشی نرم کرنا۔ صاف

کرنا۔ کاٹنا۔ فلاں بے عزتی کرنا۔

الدَّابَّةُ - جانور کو زور سے ہانکنا۔

الصَّبِيْ تَدْبِيْ اَمَه - بچہ کا پستانوں


کو چوسنا۔ المَلَاخُ السَّقِیْنَةُ -



ملاح کا کشتی کو چیلوں سے کھینچنا۔
 الشیء فی الماء پانی میں ملنا۔ الغصن
 ہنسی کی جھال اٹارنا۔
 مَرْدُوس (س) مَرْدُود مَرْدُودۃ۔ الغلام
 لڑکے کا دینے کے لیے ریش ریشا۔
 مَرْدُود تَمْرِیداً اَوْ تَمْرِیداً۔ الغصن
 مٹی کے پتے صاف کرنا۔ البناء
 عمارت کو ہموار دیکھنا کرنا۔ لمبی کرنا۔
 تَمْرُود۔ بدلتا ہوا امر درہنہ سرکشی اور
 نافرمانی کرنا۔
 علی الناس۔ سرکشی کرنا۔ الرجل
 ہمسروں سے بڑھ جانا۔ بکتر کرنا۔ کٹر کرنا
 کے پاس آنا۔
 المَرَادُ والمَرَاد۔ گردن۔ ج۔
 مَرَارِید
 المَرْدِی۔ کشتی کھینے کا چیلو۔ ج۔
 مَرَادِی۔
 المَیْرَاد۔ نا۔ سرکش۔ بلند۔ ج۔ مَرْدُود
 دَمَارِ دُونَ دَمَرَاد
 المَرْدِی۔ جیت۔ شری۔ سرکش۔ پانی سے
 ملا ہوا دودھ۔ دودھ میں بھگوئی ہوئی کھجور
 ج۔ مَرْدُود
 المَرْدُود لے ریش جوان۔ مَرْدُودۃ۔
 ج۔ مَرْدُود۔
 المَرْدُود۔ بغیر ہتھوں کا رخت۔ بنجوریت
 بنجورین۔ ج۔ مَرَاد۔
 المَرَاد۔ کبوتروں کا بروج۔ ج۔ تَمَارِید
 المَرْدِی۔ دبیر۔ سرکش۔
 المَرْدُود۔ ایک خوشبودار باریک پتوں
 والی بوٹی۔ زعفران۔
 مَرْدُود (ن) مَرْدُود۔ کاٹنا۔ چلی لینا۔
 عیب لگانا۔ ہاتھ سے مارنا۔
 مَرْدُود۔ عیب لگانا۔ شریک
 شریک کا مال اپنے مال سے علیحدہ کرنا۔
 مِّن مَّالٍ مَرْدُود۔ کچھ لے لینا۔

مَاسَرَزۃ مَاسَرَزۃ۔ زکا۔ مشق و مہارت
 پیدا کرنا۔
 المَرَزۃ والمَرَزۃ۔ لکڑا۔ المَرَزَان
 کان کی نو سے اوپر کا بھرا ہوا حصہ۔
 المَرَزۃ۔ ایک شکاری پرندہ۔
 المَرَزَان عند الفرس۔ ریش سردار۔
 ج۔ مَرَزَانۃ۔ المَرَزَانۃ۔ سرداری
 المَرَزَانۃ۔ ایک بولی کا نام۔
 مَرَس (ن) مَرَسۃ۔ الدواء۔ دوا کو پانی
 میں بھگونا اور ملنا۔ الیصنی اَصْبَعۃ۔
 بچکا انگلی کو مٹی میں لے کر چوسنا۔ بید کا
 بالمدیل۔ ہاتھ کو توبہ سے پوچھنا۔
 حَبَلُ الْفُکۃ۔ چرخی کی رسی کا ایک
 طرف سے گرجانا۔
 مَرَسۃ (س) مَرَسۃ و مَرَسۃ۔
 المَرَسۃ۔ محنت کرنا۔ مشق کرنا۔ مہارت
 پیدا کرنا۔ ہمیشگی کرنا۔
 مَرَسۃ۔ جبل البکرۃ۔ چرخی کی رسی کو دوبارہ
 اس پر چڑھانا۔
 تَمَرَسۃ و مَرَسۃ۔ بالشی۔ رگڑنا۔
 تَمَرَسۃ بالیطیب۔ خوشبو میں بھرنے
 بالوجل۔ ایذا دہی کے درپے ہونا۔
 بید بینہ۔ دین۔ کھیلنا۔ بالشی
 مارنا۔ بالنوا بَاب وَالْعَصۃ۔ انت۔
 حوادث اور عجیبوں کا خوف و عادی ہونا
 تَمَرَسۃ۔ القوم فی الحرب۔ جنگ میں
 آپس میں مارنا۔
 المَرَسۃ۔ م۔ لٹانا۔ چال۔ المَرَسۃ۔
 کام میں سخت غمتی۔ جنگ آزمودہ۔
 چرخی سے اتاری ہوئی رسی۔ کتے ہیں۔
 "ہم علی مَرَسِی و اِجِد" وہ ایک ہی
 اخلاق کے ہیں۔ ج۔ مَرَسۃ۔
 المَرَسۃ۔ رسی۔ ج۔ مَرَسۃ و ج۔
 مَرَسۃ۔ مَرَسۃ۔ مَرَسۃ۔ مَرَسۃ۔
 مَرَسۃ۔ مَرَسۃ۔ مَرَسۃ۔ مَرَسۃ۔
 مَرَسۃ۔ مَرَسۃ۔ مَرَسۃ۔ مَرَسۃ۔

المَرَسۃ و المَرَسۃ۔ شدت و قوت
 ہو سہل المَرَسۃ۔ وہ نرم مزاج
 ہے۔ اس کے مقابلہ میں کتے ہیں۔
 صَعِبُ المَرَسۃ۔ مضبوط۔
 طاقت ور۔
 المَرْدُوس۔ چرخی جس سے رسی ایک
 طرف گر گئی ہے۔
 المَرْدِی۔ پانی میں بھگوئی ہوئی کھجوریں
 المَرَسۃ و المَرَسۃ۔ شفا خانہ
 ج۔ مَرَسۃ۔
 مَرَسۃ (ن) مَرَسۃ۔ دُخِرۃ۔ چہرہ
 نوچنا۔ کھرچنا۔ منہ سے کاٹنا۔ چٹکی
 بھرنے۔ کلام سے ایذا دینا۔ مَرَسۃ
 الماء۔ پانی ہنا۔
 مَرَسۃ۔ اشیء۔ کھینچنا۔ ایک لینا۔
 جھپٹ لینا۔ بقیالہ۔ اہل و عیال کے
 لیے کمال کرنا۔ اشیء۔ جمع کرنا۔
 المَرَسۃ۔ بارش سے صاف کی ہوئی
 زمین۔ بارش سے جلد بہ جانے والی
 زمین۔ ج۔ مَرَسۃ و مَرَسۃ۔
 المَرَسۃ۔ بہت شری۔ مَرَسۃ۔
 ج۔ مَرَسۃ۔ مَرَسۃ۔ ہر کھانا جانور
 طرح طرح کی کھانوں کی زمین۔
 المَرَسۃ۔ بہت کاتے والا۔
 المَرَسۃ۔ تھوڑی بارش۔
 مَرَسۃ۔ مَرَسۃ۔ المَرَسۃ و المَرَسۃ۔
 پستان انگلیوں سے دہانا۔
 مَرَسۃ (س) مَرَسۃ۔ سفت کرنا۔ آگے
 نکھنا۔
 تَمَرَسۃ۔ المَرَسۃ۔ المَرَسۃ۔ جو سے
 جھکا اترنا۔
 المَرَسۃ۔ تیز رفتار دھنی۔
 مَرَسۃ۔ مَرَسۃ۔ مَرَسۃ۔ بیمار ہونا۔
 صفت مَرَسۃ و مَرَسۃ۔
 مَرَسۃ۔ علاج کرنا۔ تیمارداری کرنا۔



<p>الْمُرُوعَةُ وَالْمُرَاعُ - جربي - الْمُرُوعَةُ وَالْمُرُوعَةُ - ایک قسم کا تیتیر - (ج) مُرُوعٌ وَمُرُوعَانٌ - کہنے ہیں - فُلَانٌ مُرُوعٌ الْجَنَابِ - فلاں بہت فیاض ہے۔ الْمُرُوعَةُ بِرَبِّهِ جگہ - ج - اَمْرٌ يُعِ الْمُرَاعُ - سرسبز۔ الْمُرُوعَةُ وَالْمُرُوعِيُّ وَالْمُرُوعِيُّ وَالْمُرُوعِيَّةُ وَالْمُرُوعِيَّةُ - زم لہتم - بکری کے بالوں کا نیچے کا روال۔ مُرُوعٌ - ن - مَرُوعًا - الْحَيَوَانُ الْعُشْبِ جانور کا گھاس چرنا۔ مِرْعٌ (س) مَرُوعًا - عِوَصَةٌ - عزت کا خراب و دغدار ہونا۔ مَرُوعَةٌ تَمْرِيقًا تَمْرِيقًا فِي التُّرَابِ خاک میں لوٹانا۔ مَرُوعٌ الْعُيُونِ - عزت کو دغدار کرنا۔ رَأْسُهُ - سر کو خوب تیل پلانا۔ مَادَّةُهُ - فرب دینا۔ لَا بِالتُّرَابِ - مٹی چٹا دینا۔ اَمْرُوعٌ - سونے میں اطراف دھن سے رال ٹیکنا۔ بہت بکواس کرنا۔ الْعَجَبِينَ - آٹے میں پانی ملا کر اس کو تپلا کرنا۔ عِوَصَةٌ - عزت کو دغدار کرنا۔ تَمْرُوعٌ - فِي التُّرَابِ - خاک میں لوٹنا۔ فِي الْأَمْرِ - کسی کام میں تردد کرنا۔ عَلَى فُلَانٍ - دیر لگانا۔ الْحَيَوَانُ جانور کا منہ سے لعاب بہانا یا کسی جگہ دیر تک چرتے رہنا۔ الْمُرُوعُ - ممر - عُاب - رال - سبزہ زار۔ تیل کی اچھی طرح مالش۔ الْمَادُّعُ - ن - اَحْمَقٌ - المِرَاعُ - بہت تیل جذب کرنے والا۔ الْمُرَاعُ وَالْمُرَاعَةُ وَالْمُرَاعُ - جانور کے ٹوٹ پوٹ ہونے کی جگہ۔</p>	<p>مَرُوطٌ - (س) مَرُوطًا - بے بال یا کم بالوں والا یا نوچے ہوئے بالوں والا ہونا۔ اَمْرُوطٌ - بال کا نوچنے کے قریب ہونا۔ درخت خرم کا کچی کھجوریں کرنا۔ اُونٹنی کا چلنے میں جلدی کرنا۔ مَامَسَ كُلَّهُ مُمَامَسَةً كُلَّهُ - ایک دوسرے کے بال نوچنا۔ تَمْرُوطٌ وَ اَمْرُوطٌ وَ النَّمْرُوطُ - بال کا گرنا۔ تیز کا پر سے خالی ہونا۔ اَمْتَرُوطٌ - جھپٹ لینا - جمع کرنا۔ اَلْمُرُوطُ - ہر بے سیلا کپڑا - اُونی یا ریشمی چادر - ج - مَرُوطٌ - اَلْمُرُوطُ - بے بال یا کم بالوں والا۔ نچے ہوئے بالوں والا بھڑیا۔ چور - مَوْنَتٌ - مَرُوطًا - ج - مَرُوطٌ شجرۃ مَرُوطًا ہے پتوں کا درخت شہم مَرُوطٌ و مَرُوطٌ وَ اَمْرُوطٌ بے پر کا تیر۔ اَلْمُرُوطُ مِنَ السَّهَامِ - بے پر کا تیر - ج - اَمْرُوطٌ وَ مَرُوطٌ - اَلْمُرُوطَةُ - نوچنے یا کٹھنی کرنے میں گرا ہوا بال - اَلْمُرُوطُ - تیز رفتاری - اَلْمُرُوطُ - تیز و اُونٹنی۔ مَرُوعٌ - (ن) مَرُوعًا - رَأْسُهُ بِالذَّهْنِ سر پر تیل لٹا - شَعْرَكَ - بالوں میں کٹھنی کرنا۔ مَرُوعٌ - (س) مَرُوعًا وَ مَرُوعٌ - رک، مَرَاعَةٌ - اَلْمَكَانُ - جگہ کا سرسبز ہونا - الرَّجُلُ - آدمی کا خوش حال ہونا۔ اَمْرُوعٌ - اَلْمَكَانُ - جگہ کا سرسبز ہونا۔ رَأْسُهُ - سر پر خوب تیل لگانا۔ الْقَوْمُ - سرسبز جگہ پانا۔ تَمْرُوعٌ - کھاس - ج - اَمْرُوعٌ وَ اَمْرُوعٌ</p>	<p>مریض بنانا۔ مَرُوعٌ فِي الْأُمُوسِ - کام میں سُست کا بل ہونا۔ مضبوطی سے نہ کرنا۔ اَلْمُرُوعُ - گیوں بھیننا۔ اَمْرُوعٌ - مریض ہونا - اَللَّهُ فُلَانًا - مریض کرنا۔ ج - مریض پانا۔ اَجْفَانُهُ - پلکیں نیچی کرنا۔ الرَّجُلُ حاجت بر آری کے لیے قریب ہونا۔ الْقَوْمُ - بیمار جانوروں والا ہونا۔ تَمْرُوعٌ - کام میں کمزور ہونا۔ تَمَارُوعٌ - بیماری کا بہانہ کرنا۔ فِي اَمْرِ کام میں کمزور ہونا۔ اَلْمَرُوعُ وَ اَلْمَرُوعُ - بیماری - ج - اَمْرَاعُ - اَلْمَرِيعُ - ج مَرُوعِي وَ اَلْمَرُوعُ - ج - مَرَاعِي - بیمار - قَلْبٌ مَرِيعٌ - کمزور دل والا ہونا۔ رَأْيٌ مَرِيعٌ - کمزور راتے - عَيْنٌ مَرِيعَةٌ - کمزور آنکھ رَنُجٌ مَرِيعَةٌ - کمزور سُست ہوا۔ لَيْلَةٌ مَرِيعَةٌ - وہ رات جس میں ستارے نکلے ہوئے نہ ہوں - اَرْضٌ مَرِيعَةٌ - بسنے والوں سے تنگ زمین چٹیل زمین - فتنہ و فساد سے بھری ہوئی زمین۔ شَمْسٌ مَرِيعَةٌ - وہ سورج جس کی روشنی بادل وغیرہ سے کمزور ہو۔ مَرِيعَةٌ - کی جمع مَرَاعِي وَ مَرُوعِي - اَلْمَرَاعِي - بہت بیماری والا۔ اَلْمُرُوعُ وَ اَلْمُرُوعُ - بیمار۔ مَرُوطٌ - (ن) مَرُوطًا وَ مَرُوطٌ - الشَّعْرُ اَوِ الْوَلِيقُ - بال یا پر نوچنا - اَلْيَتِيُّ - جمع کرنا۔ لَيْسَ بِهِ - پانا نہ کرنا۔ مَرُوطٌ اَلْمُرَاةُ بَوَلَدُهَا - عورت کا بچہ جننا - (مَرُوطًا وَ مَرُوطًا) - الرَّجُلُ - جلدی کرنا۔ فُلَانًا - پناہ دینا۔</p>
---	--	--



الْمُرْتَقُ - سبز زار - الْأَمْرُغُ - رزول
 باتوں پر نگار سے والا - مُوْتَق - مَرُغَاءُ -
 رز، مُوْرَغُ - الْمُرُغَةُ - ایک آنت جس کو
 اورد کہتے ہیں
 مَرُوقٌ - ن - مُرُوقًا - السَّخْمُ مِنَ الزَّيْتِ
 تیر کا شکار پر لگ کر پار ہونا - مِنَ اللَّيْلِ
 گمراہی یا بدعت کی وجہ سے دین سے خارج
 ہونا -
 مَرَاتٌ دَن مَن، مَرَاتًا - الْفَيْسُ - ہانڈی میں
 شور بازیاہ کرنا - الْجِلْدُ - کھال سے
 اُدُنْ أَلْيَزْنَا - بِالْمَرْفُوحِ - نیزہ ملنا -
 الطَّائِرُ - پرندہ کا بیٹ کرنا -
 مَرَاتٌ - س - مَرَاتًا - الْبَيْضَةُ - انڈے
 کا خراب ہو کر پانی ہو جانا - النَّخْلَةُ - خرب
 خرما کا کھجوریں کرنا -
 أَمْرَقٌ - انْقِدَسَ - شور بازیاہ کرنا - الْجِلْدُ
 کھال کا اُدُنْ کھیلنے کے قابل ہونا -
 النَّخْلَةُ - درخت خرما کا کھجوریں کرنا -
 اسم (الْمَرَاتُ)
 مَرَاتٌ - گناہا - انْقِدَسَ - شور بازیاہ کرنا -
 تَمْرُوقٌ - الشَّعْوُ - بال لچا جانا یا گر جانا -
 الثَّوْبُ - کپڑے کا عصف سے رنگا جانا -
 اِنْمُوقٌ دَامَرَاتٌ - السَّخْمُ - چھید کر
 بار ہونا - الشَّعْوُ - بال کا گرنا -
 اِصْتَوْقٌ - اِشِي - جلدی سے گزر جانا -
 السَّيْفُ مِنَ عَمْدِهِ - تلوار سونٹنا -
 الْمَرَاتُ وَالْمَرَاتُ - دھنی ہوئی اُدُنْ - بدو دار
 اُدُنْ یا کھال - خوشے کے خار - ج - الْمَرَاتُ
 الْمَرَاتُ وَالْمَرَاتُ - شوربا - الْمَرَاتَةُ -
 اکھیری ہوئی اُدُنْ -
 الْمَارَاتُ - دین سے نکل جانے والا - ج -
 مَارَاتُونَ دَمَرَاتُ -
 الْمَارَاتَةُ - مُوْتَق - الْمَارَاتُ - خوارج -
 الْمَرَاتُ - عصف -
 الْمَرَاتُ - حجت کا روشن دان - کھڑکی -

مَرَمَسٌ - غفیناک ہونا - پانی بہانا -
 تَمْرُوقٌ - ریت کا اُدُنْ - گوشت کا کاپنا - بَرَبَر
 کرنا -
 الْمَرُوقُ - سَنَك مَرَمَز - وَالْمَرُوقُ - نرم
 گوشت والا - بہت دس والا انار -
 الْمَرَامُ - باطل - الْمَرَامَةُ - مع - بہت
 بارش -
 الْمَرَامِلُ - چکنا - سخت - یصیبت - لمبی
 گردن -
 الْمَرَامِلُ - گیسٹا -
 مَرَاتٌ دَن، مَرُوقَةٌ دَمْرُوقًا دَمْرَاتُ
 سخت و ملائم ہونا - يَكْدُ عَلَى الْعَمَلِ
 کام سے ہاتھ سخت ہونا - (مَرُوقًا و
 مَرَاتَةً - عَلَى الشَّيْءِ - عادی ہونا -
 مَرَاتٌ دَن، مَرَاتًا - الْجِلْدُ - نرم کرنا - مِنْ
 عَدُوِّكَ - بھاگنا - يَهْلُ الْأَرْضِ - زمین
 پر چل دینا -
 مَرَاتٌ - الشَّيْءُ - نرم کرنا - فَلَانًا عَلَى الْأَمْرِ
 عادی بنانا یہ الارض - زمین پر چلنا
 دینا -
 تَمْرُونٌ - ننگف دانا و زبرک بنا - مہربان
 ہونا - عَلَى الشَّيْءِ عادی ہونا -
 تَمَارَاتُ النَّاقَةِ - دودھ دینے سے رک
 جانا -
 الْمَرُونُ - مع چادر - نرم چمڑا - پوستین -
 عقیقہ جانب - لباس - ج - أَمْرَان -
 مَرَاتُ الْأَنْفِ - ناک کے دونوں پہلو -
 الْمَرُونُ - ملائم و سخت - عادت - حالت
 شور و جنگ -
 الْمَرَاتُ - فھوس و لچکدار نیزہ - وَه
 درخت جس سے نیزہ بنائے جاتے
 ہیں - واحد - مَرَاتَةٌ -
 الْعَارُونَ - ناک کا کنارہ یا اس کے پہلو
 کی نرم ہڈی - سخت و لچکدار نیزہ - ج -
 مَوَارِينُ -


أَمْرَانٌ - بازو کا پٹیا -
 مَرَهَاتٌ (س) - مَرَاهَا - عینہ - سرمہ نہ
 لگانے سے آنکھ کا خراب ہونا صفت
 (مَرُوقٌ دَامَرَاتُ) - مَرُوقٌ - الْفَوَاد -
 بیمار دل - سَحَابٌ أَمْرُوقٌ - سفید
 بادل
 الْمَرَاهَا - مَوْت - الْأَمْرُوقُ - شَاةٌ
 مَرَاهَا - سفید بکری - لَحْوَةٌ
 دودھ دوتہا - نکالنا -
 تَمْرُونُ - یکڈا - آراستہ ہونا -
 الْمَرُونَةُ وَالْمَرُونَةُ - شک جھکنا -
 دودھ جو یقین مل کر نکالا جائے -
 الْمَرُونُ - بہت دودھ دینے والی اونٹنی -
 رگ جو دودھ سے بھر جاتی ہے -
 ج - مَوَارِيَا -
 الْمَوَارِيَا - جمع مَرَاتَةٍ - آئینہ -
 الْحَارِي - سفید و نرم بالوں والا بھیرا -
 مَوْت - مَارِيَّةٌ - دھاری دار چھوٹی
 چادر - بھٹ نینر کا شکاری -
 الْحَارِيَّةُ وَالْمَرُونَةُ - سفید و نرم بالوں
 کے بھیرے والی گائے -
 مَرُوقٌ (س) - مَرَاتَةٌ - الرجل فضیلت مل
 ہونا - الشَّيْءُ - زیادہ ہونا - صفت -
 (مَرُونُ) - مَرَاتَةٌ - مَرُونُ شَاةٌ -
 الطعم - کھٹ بیٹھا ہونا -
 مَرَاتٌ (س) - مَرَاتٌ - الشَّيْءُ - چوسنا -
 مَارَاتُ مَارَاتَةٍ - بَلْمَهْمَا - دور - دور ہونا -
 مَرَاتُ فَضِيلَتُ بَحْنَا - یکڈا - فضیلت
 دینا -
 تَمَارُوقٌ - دور ہونا -
 تَمْرُونُ - چوسنا - چکنا -
 الْمَرُوقُ - سخت - دشوار -
 الْمَرُوقُ - مزیدہ - فضیلت - کثرت -
 الْمَرُوقُ - کھٹ - بیٹھا -
 مَوْت - مَرَاتَةٌ -



الْمَزْدُ الْمَزْدُ وَالْمَزْدُ خُوش زَالِق
شرب۔ ماکفی فی الاناء۔
الْمَزْدُ بَرْتَن میں خُوش سا بکھا ہے
الْمَزْدُ کثرت۔ فرصت
الْمَزْدُ ناضل۔ خُوش۔ بہت۔
مشکل۔
الْمَزْدُ ناضل۔ افضل۔ دشرار۔
مونت مزاج۔ ج۔ مَزْدُ۔
مَزْدُ (رن) مَزْدُ جَارِ مَزْدُ۔
الشراب بالماء شراب میں
پانی ملا نا۔ فَلَانَا عَلٰی فَلَانٍ۔
بھڑکانا۔ اکسانا۔
مَارَحَهُ مَارَحَةً۔ مل جانا۔ فخر میں
مُتَا بَل کرنا۔
مَزْدُج۔ السَّبِيل۔ سبزی کے بعد زرد ہو
جانا۔ فَلَانَا۔ کچھ دینا۔
تَمَارَجَا۔ ایک دوسرے سے ملنا۔
اِمْتَزَجَ بِهِ۔ ملنا۔
اَلِمَزْجُ وَالْمَزْجُ۔ شہد۔ شراب میں
ملا یا ہوا پانی۔
اَلِمَزْجُ۔ م۔ ملانے کی چیز جیسے
پانی شراب میں، مزاج۔ طبیعت۔
ج۔ اَمِزَجَةً۔ رَجُلٌ مَزْجٌ۔
جھوٹا۔ متلون المزاج متغص۔
اَلْمَزْجُ۔ ملا یا ہوا کھڑا بادام۔
مَزْجٌ مَزْجًا۔ مذاق کرنا۔ محول کرنا۔
مَزْجٌ۔ السَّبِيلُ أَوِ الْعِنَبُ۔ بالی یا
انگور کا رنگ پکڑنا۔
مَارَحَهُ مَزْجًا وَمَارَحَةً۔ خوش
طبعی کرنا۔
تَمَارَحًا۔ باہم ہنسی مذاق کرنا۔
تَمَزَّجَ بِهِ۔ فخر کرنا۔ اَلْمَزْجُ م۔
خوشہ۔
اَلْمَزْجُ وَالْمَزْجُ۔ ہنسی مذاق
اَلْمَزْجُ۔ بہت ہنسی مذاق کرنے والا

اَلْمَزْدُ۔ سردی۔
مَزْدُ (رن) مَزْدُ امین اللین۔ خُوش سا
دودھ پینا۔ اللین۔ دودھ کو چھینے
کے لیے پینا۔ کھچلی لینا۔
غصہ دلانا۔ (و مَزْدُ) اَلْقَرْبَةُ۔
مشک بھڑنا۔
مَزْدُ (رن) مَزْدُ اسَاق۔ چست ہونا۔
مضبوط دل والا ہونا۔
تَمَزَّز۔ خُوش ہونا پینا۔
اَلْمَزْمُ۔ مرد ظریف۔ اَلْمَزْمُ جو یا
گیہوں کی بنید۔ بے وقوف۔ اصل
کس یہ اَلْمَزْمُ۔ شریف الاصل۔
اَلْمَزْمُ۔ خوش طبع۔ چست مضبوط دل
والا۔ ج۔ اَمَارِزُ۔
مَزْعُ (رن) مَزْعُ۔ اَلطَّبْعُ وَخَوَّءُ۔
ہرن وغیرہ کا آہستہ سے دوڑنا۔
رَدَّ مَزْعُ اَلْقَطْنِ رَدًّا کَا اَلْغَبِیُّ
سے چلنا۔
مَزْعُ الشَّيْءِ۔ متفرق کرنا۔
تَمَزَّعَ۔ الگ الگ ہونا۔
تَمَزَّعُوا الشَّيْءَ تَمَزَّعًا۔ انہوں نے چیز
آپس میں تقسیم کر لی۔
تَمَزَّعَ غَيْضًا۔ غصہ سے کانپنے
لگنا۔
اَلْمَزْعَةُ۔ روٹی کا گالا۔ ج۔ مَزْعُ۔
رَدَّ اَلْمَزْعَةَ۔ گوشت یا چربی کا
ٹکڑا۔ پانی کا گھونٹ۔ ج۔ مَزْعُ
و مَزْعُ۔
اَلْمَزَّاعُ۔ بہت دوڑنے والا۔ سیہی
اَلْمَزَّاعَةُ۔ چلنے میں گری ہوئی چیز۔
اَلْمَزَّعِيُّ۔ عیقل خور۔
مَزْقُ (رن من) مَزْقًا۔ و مَزْقُ التَّوْبِ
کپڑا بھاڑنا۔
عَنْ ضَمِّهِمْ۔ عزت پر عیب لگانا۔
سَفَتَ (مَزْقُ)۔ ج۔ مَزْقُوتٌ۔

اَلطَّائِرُ بَسْلَجُهُ۔ پرندہ کا بیٹ کرنا۔
مَزْقُ۔ تَمَزَّقًا و مَزَّقًا۔ پراگندہ
کرنا۔ بکھیرنا۔ تباہ کرنا۔
مَزَّقَهُمْ کُلَّ مَزَّقٍ۔ یعنی اس نے
ان کو ملک کے اطراف و جوارب میں
پراگندہ و متفرق کر دیا۔
مَا زَقَّتْ۔ درمیں سبقت لے جانا۔
تَمَزَّقَ۔ یعنی۔ بکھر جانا۔ اَمَزَّقَ۔
بھٹنا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
اَلْمَزَّقَةُ۔ کپڑے وغیرہ کا ٹکڑا۔ ج۔
مَزْقُ۔ تَوْبٌ مَزْقٌ و مَزْقٌ
و مَزْقٌ۔ پھیلا ہوا کپڑا۔
مَزْمُ۔ ترش ہونا۔ شیخ کو اکھاڑنے
کے لیے ملنا۔
تَمَزْمُ۔ ہن۔ اَلْيَقِيَامُ۔ اُٹھنے کے
لیے تیار ہونا۔
مَزْنُ (رن) مَزْنًا و مَزْنًا چلے جانا۔
وَجْهَهُ۔ چہرے کا چمک اٹھنا۔
مِنْ اَلْعَدُوِّ۔ بھانڈا۔ (و مَزْنُ)
اَلْقَرَابَةُ۔ مشک بھڑنا۔ فلانا تعریف
کرنا۔ تفضیلت دینا۔
تَمَزَّنَ۔ چلا جانا۔
عَلَى اَلْقَوْمِ۔ مہربانی اور سخاوت
کرنا۔ اپنی تعریف حد سے زیادہ کرنا
تکلف زیرک بننا۔ عَلٰی الْأُمْرِ۔
عادی ہونا۔
اَلْمَزْنُ۔ بادل۔ بارش والا بادل۔
حَبُّ اَلْمَزْنِ۔ اولہ۔
اَلْمُزْنَةُ۔ بادل کا ٹکڑا۔ بارش۔
اَلْمَزْنُ۔ عادت۔ طریقہ۔ حالت۔
کما زال عَلٰی هَذَا اَلْمَزْنِ۔ وہ ہمیشہ
اس طریقہ و حال پر رہا۔
اَلْمَزْنُ۔ چوبیس کے اندر۔
ابن مَزْنٍ۔ چوبیس۔
مَزْنُ (رن) مَزْنًا۔ ہنسی مذاق کرنا۔



بدل دینا۔ مفت مفعولی (مَصَحَّ و مَصَحَّ)
الکاتب۔ کتابت میں بہت غلطی کرنا۔
التافہ۔ اونٹنی کو لاغر کرنا۔ طعمہ
اللحم گوشت کو بے مزہ کرنا۔
امسح۔ الوترام۔ دم تحیل ہونا۔ تمسح۔
الغزل۔ سوت کا ٹوٹنا۔

امسحت و امسحت۔ العنبد۔ بارد
کا کم گوشت والا ہونا۔ امسح۔
امسح۔ السیف۔ تلوار کا سونٹنا۔
المسح۔ بد شکل۔ بے مزہ۔ بے ذوق
الامسوخ۔ ایک پودے کا نام۔
المسوخ۔ مغم۔ دیسے کیٹھے والا کھوڑا۔
مسد رن۔ مسدا۔ العجل۔ رسی بنا۔
یا عمدہ بنا۔ فی السیر۔ چلنے میں
عادی بنانا۔

مسد البطی۔ پیٹ کا نرم دھوار ہونا
المسد۔ کھجور کے ریشہ کی رسی۔ مضبوط
رسی۔ لوہے کا ڈھرا۔ ج۔ ميساد و
امساد۔

المساد۔ شمشک درستی۔
المسود۔ مغم۔ مضبوط۔ ہٹا کا۔
مسط ان مسطاً۔ المعی۔ آنت میں سے
انگل کے ذریعہ نکالنا۔ الثوب۔ کپڑے
کو بچھڑنا۔ فلانا بالنبیاط۔ کوڑے سے
مارنا۔ شیکرہ سے جا ہوا دودھ انگلیوں
کے ذریعہ نکالنا۔ الثوب

الماسط۔ ایک جلاب کا پودا۔
المعبط۔ گدلا پانی۔ بچھڑ۔
المسیطہ۔ گدلا پانی۔ ذرا سے پانی سے
بہہ جانے والی وادی۔

المسح۔ شمالی ہوا۔ المسحی۔ بہت بڑے
سیاحت کرنے والا آدمی۔
مسک (ن من) مسکا بہ چٹنا۔ متعلق
ہونا۔ بالنام۔ زمین کے ٹکڑے میں
آگ کو رکھ سے چھپانا۔ دفن کرنا۔

مسک (ن) مساکۃ۔ السقا و شیکرہ
کا پانی گرنے نہ دینا۔

مسک بہ چٹنا۔ مسکۃ۔ مشک کی خوشبو
لگانا۔

امسکۃ۔ روکنا۔ امساک بہ چٹنا۔
الشیء علی انفسہ۔ حفاظت کرنا۔

اللہ الغیث۔ بارش روکنا۔
عن الامر۔ روکنا۔ من الکلام
خاموش ہونا۔

تمسک و تماسک و امتسک بہ
چٹنا۔ مضبوط پکڑنا۔ ماماسک
وہ نہ مضبوط کر سکا۔ مایہ تماسک۔
اس میں کوئی خیر نہیں۔ امتسک
فی البکد وہ شتر میں رہا۔

استمسک بہ چٹنا۔ عن کذا۔ روکنا۔
بولک۔ پشیمان بند ہونا۔ الرجل
علی الراجلۃ۔ سواری پر جم کر
بٹھنا۔

المسک۔ پانی روکنے کا بند۔ زمین کے
طبقات۔ گنگھن۔ پازیمین۔ واحد
مسکۃ۔

المسک۔ بدن کو باقی رکھنے کی مقدار
کھانا پانی۔ پوری عقل۔

المسک۔ مشک۔ کستوری۔ ج۔
مسک۔ مسک البر و مسک
الچین۔ پودے۔

المسکۃ۔ دستہ۔ گزارہ۔ پوری رائے
و عقل۔ سخت زمین میں کھودا ہوا کنواں

ج مسک۔ مایہ مسکۃ۔ اس میں
کوئی بھلائی نہیں۔

المسکۃ و الممسکۃ۔ بھل بھوسہ
المسکۃ۔ بھیل۔

المساک۔ پانی روکنے کا بند۔ بھل۔
المساک۔ بھل روکنے والی چیز۔
تلوار وغیرہ کا دستہ قبضہ۔

المساکۃ و المساکۃ۔ بھل۔
المساکات۔ وہ جگہیں جہاں پانی کی
حفاظت کی جائے۔

المسکان۔ بیعانہ۔ ج مساکین۔
المسکین و المسکۃ۔ مادہ سڑک
ن میں دیکھیے۔

المسک و المساک و الممسک۔
بھیل۔

المسک۔ ج مسک و المسک
بھیل۔ "ما فیہ مسک" اس میں
کوئی بھلائی نہیں۔

الامساک۔ مم۔ بھل۔ المسکۃ۔
ارض مسکۃ۔ سخت زمین۔

المسکۃ و المسکۃ۔ ایک پودہ۔
مسک رن مسلا۔ الماؤ۔ پانی کا بہنا۔

امسک۔ السیف۔ تلوار سونٹنا۔
المسک۔ پانی بہنے کی جگہ۔

ج۔ امسکۃ۔ و مسک۔
و مسلا و مسلا۔

مسلا۔ الرجل۔ آدمی کے دونوں بازو
یا دارھی کے کنارے۔ یا پہلو۔

مساکۃ۔ الوجہ۔ بیضی شکل کے پیر
کی خوبصورتی۔

المسک۔ بہاد۔ ترچھری پانی بہنے کی نالی
ج مسک و امسکۃ۔

ممسک منمسکۃ و مسکاسا۔
الامو۔ کام کا پیچیدہ ہونا۔

ممسک۔ الرجل۔ مجبور و محسوس ہونا۔
الممسک۔ خفیف۔ ہکا۔

ممسک۔ رن مسنا۔ الرجل۔ محول کرنا۔
بے باک ہونا۔ کارمار کر گرا دینا۔

الشیء من الشیء۔ کھینچ نکالنا۔
مسک یمسکوا مسکوا۔ العمار۔ گدیے کا

چلتے چلتے اڑ جانا۔ (و مسک تمسکۃ)
الرجل۔ وعدہ کر کے دیر لگانا۔



مَسَاءٌ تَمِيسِيَّةٌ - یہ کنسا کہ تمہاری شام
اچھی ہو۔ تم نے شام کیسے گزاری شام
کو آنا۔

اَمْسَى اِمْسَاءً وَمُصْىً - شام میں
داخل ہونا۔ کان کی طرح فضل ناقص
بن کر بھی آتا ہے۔ جیسے اَمْسَى زَيْدٌ
ضاحکہ۔ زید شام کے وقت بہتس رہا
نہا۔

اَمْسَاهُ اِمْسَاءً - مار دکرنا۔ وعدہ کر کے
دانا۔

مَا سَاةٌ مَّاسَاةٌ - محول کرنا۔
اِمْتَسَى اِمْتَسَاءً - ماعت کی فلاں سب
کچھ لے لینا۔

اَلْمَسَاءُ حِ اَمْسِيَةٌ وَاَلْمَسِي -
شام دوپہر کے بعد سے مغرب تک کا
وقت۔

اَلْاَمْسِيَّةُ - شام۔ اَلْمَمْسَى - ہم۔
شام گزارنے کی جگہ۔

مَسَى يَمْسِي مَسِيًا - اشی - چیز پر ہاتھ
پھیرنا۔ اَلْحَزَامُ مَسِيَّةٌ - گرمی کا موٹی
کوڑہ لگا کرنا۔ اَلسَّيْفُ - تلوار سونٹنا۔
الرجل - بدلتی ہونا۔

تَمَسَّى وَتَمَسَّى - اشی - ٹکڑے ٹکڑے
ہونا۔

اَمْتَسَى اِمْتَسَاءً - پیاس ہونا۔
اَلْمَاسِي - نا۔ کسی کی نصیحت پر توجہ نہ
دینے والا۔ پھرتیلا۔

اَلْمَاسِي - ہم۔ مسیتیں اس کا مفرد نہیں
مَتَسَّى (ن) مَتَسَا - العظم - ہڈی کو
اطراف سے چوسنا۔

اَلنَّاقَةُ - اونٹنی کو دوہنا اور کچھ دودھ
اس کے حق میں چھوڑ دینا۔ سارا دودھ
دوسرے لینا۔ مَالِ فُلَانٍ - غوراً غوراً
کر کے لینا۔ بیکہ - ہاتھ پونچھنا۔
فُلَانًا - دشمنی کرنا۔ جھگڑا کرنا۔ اشی

پانی میں حل کرنے کے لیے بھگوننا۔

مَشَشْنِي - اشی - العظم - ہڈی چوسنا
اور اس کا گودا نکالنا۔

اَمَشَنَ الْعَظْمَ - ہڈی کا گودے والی ہونا
اَفْمَشَنَ لَهُ الشَّيْءُ - حاصل ہونا۔

اَمْتَشَنَ - الثوب - کپڑا اتارنا۔ مَا فِي
الْفَرْخِ - سب دودھ حق سے نکال
لینا۔ مَن مَالِ فُلَانٍ - حصہ پانا۔

اَلْعَظْمُ - چبائی ہوئی ہڈی کو چوسنا۔
اَلْمَشَاشُ - اَلْمَشَاشَةُ کی جمع۔ نرم
زمین۔ اَصْل - نفس - طبیعت۔

لَبِثَ اَلْمَشَاشُ نَرْمِ اخلاق کا آدمی۔
مَشَاشُ الرَّجُلِ - سفر و حضر میں انسان
کے خادم اور نوکر چاکر۔

اَلْمَشَاشَةُ - نرم ہڈی کا سرا۔ خاک اور
نرم سنگی زروں کا راستہ۔ مَج - مَشَاشُ
مَشَاشَةُ الْقَوْمِ - قوم کے برگزیدہ لوگ

اَلْمَشَرَشُ - تولیہ۔ رومال۔
مَشَجَةٌ - (ن) مَشَجِيًا - بکڑا۔ ملانا۔
خلط ملط کرنا۔

اَلْمَشِجُ وَالْمَشِيجُ وَالْمَشِجُ - ملا ہوا
مخلوط۔ ج اَمَشَاجُ -
اَلْاَمَشَاجُ - ناف کا میل کچیل۔

اَمَشَحَتِ - السماء - آسمان کا ابر سے
صاف ہونا۔

اَلْمَسَّةُ - سال کا خشک ہونا۔

مَشَرَنَ (ن) مَشَرًا - اشی - ظاہر کرنا۔

مَشَرَنَ (س) مَشَرًا - اترنا۔ اکرنا۔

مَشَرٌ وَمَشَرٌ وَمَشَرٌ وَمَشَرٌ -

الشجر - درخت کا کوئیل نکالنا۔

مَشَرَكًا - ہینانا۔

مَشَرُ اَلشَّيْءِ - تقسیم کرنا۔ اَمَشَرَ الرَّجُلُ

کھل کر دوڑنا۔ بَدَنًا - بدن کا

پھولنا۔ اَلْأَرْضُ - سبزہ اگانا۔

تَمَشَرُ الرَّجُلُ - دولت مند ہونا۔ دولت مند

کا اثر ظاہر ہونا۔

تَمَشَرَ لِبَاسٌ - اپنے اہل کے لیے کمائی
کرنا یا لباس خریدنا۔ اَلشَّجَرَةُ -

درخت کا سرسبز ہونا۔ اَلْقَوْمُ - کپڑے

ہیننا۔

اِمْتَشَرَ - الراعي وَرَقُ الشَّجَرِ -

چرواہے کا درخت کی ٹہنی کو ٹیڑھے

سرے کی لکڑی سے مویشی کی طرف

کھینچنا۔

اَلْمَشَرُ - سخت و سرخ آدمی۔

اَلْمَشَرُ - اثر - اَلْعَشْرَةُ - نرم کچی۔ سبز

ٹہنیاں۔ نیا نکلنے والا پتہ۔ لکڑی سے

جھکائے ہوئے پتے۔ مَشَقَةُ اَلْأَرْضِ

وَمَشَرٌ تَهَا - زمین کی نباتات، پانی

نیکلی ہوئی سبزی و نباتات۔ اَرْضٌ

مَا شَرَّةٌ - سبزہ والی زمین۔

اَلْمَشَرُ - چرسہ۔ دجالاک۔

مَشَطٌ - مَشَطٌ وَمَشَطٌ - شدہ

بالوں میں کنگھی کر کے سمجھانا۔ مَشَطٌ

اَلشَّيْءُ - مخلوط کرنا۔ ملانا۔ اَلْبُعَابُ

اَوْتٌ کے کنگھی نما آلہ سے داغ لگانا۔

مَشِطَتُ (س) مَشَطًا - بیکہ - ہاتھ کا

کام کاج کرنے سے کھردرا ہونا۔ یا

پھانس چھینا۔ رومَشِطَتُ (ن) اَلنَّاقَةُ

اونٹنی کے دونوں پہلوؤں پر چربی سے

بیس پڑنا۔

اِمْتَشَطَ - کنگھی کیا ہوا ہونا۔ کنگھی کرنا۔

اَلْمُشَطُ وَالْمُشَطُ وَالْمُشَطُ د

اَلْمُشَطُ وَالْمُشَطُ - اَلْمُشَطُ -

کنگھی۔ ج اَمَشَاطٌ وَمَشَاطٌ -


اَلْمُشَطُ - جداسے کی کنگھی نما کوچی۔

کنگھی کی شکل کا اونٹ پر نشان۔ کھریا۔

پشت قدم کی تیلی تیلی ہڈیاں۔ یا

پشت پا۔

اَلْمُشَطُ - ایک دریا کی مچھلی۔



المَشْطَةُ - کنگھی کرنے کا طریقہ۔
 المَشَاطَةُ - کنگھی کرنے کا پیشہ۔
 المَشَاطَةُ - کنگھی کرنے سے اترے ہوئے
 بال۔
 المَشَاط - کنگھی بنانے والا۔
 المَشَاطَةُ وَالْمَشَاطَةُ - کنگھی کرنے
 کا پیشہ کرنے والی۔
 المَشْطُ - کنگھی کیا ہوا
 المَشْطُ - کنگھی۔
 المَشْطُ - پتلا دلمبا آدمی۔
 مَشْطُ (س) مَشْطًا وَمَشْطًا - کانٹے
 وغیرہ کا چھیننا۔ جانور کا نمایاں پھول
 والا ہونا۔
 مَشْطَان (ن) مَشْطًا - اَلْبَلَد - کسی شہر کو
 اقامت کے لیے پسند کرنا۔ فلاں۔
 کسی سے کچھ لینا۔
 المَشْطُ وَالْمَشْطَةُ - ہاتھ میں چھپا ہوا
 کاٹا وغیرہ۔ کھڑی کے دستہ میں
 لکڑی کی لگائی ہوئی پچر۔
 المَشْطَةُ - بے بنیاد افواہیں۔
 مَشْع - ف - مَشْعًا - شئی - کمانا۔
 اچک لینا۔ القطن - روئی دھنا۔
 الغنم - بکری کو دوہنا۔
 ببولہ پیشاب کرنا۔
 فلاں بالحبیل وغیرہ - رسی وغیرہ
 سے مارنا۔ الرجل - آہستہ چال
 لینا۔
 مَشْع - الشئ - صاف کرنا۔ پونچھنا۔
 القصعة - پیالہ میں سے سب کچھ
 چٹ کر جانا۔
 امْتَشَع - ثوب صاحبہ چھین لینا۔
 تلوار جلدی سوتنا۔ ہتھوں کا
 دودھ ختم کرنا۔
 المَشْعَةُ وَالْمَشْبَعَةُ - دھنی ہوئی روئی
 کا گالا۔ المَشْوُوع - بہت کھاؤ۔

مَشْعَهُ (ف) مَشْعًا - مارنا۔ عیب لگانا۔
 الرجل - لکڑی وغیرہ کا آہستہ آہستہ
 کھانا۔
 مَشْع - الثوب - سُرخ مٹی سے رنگنا۔
 عزت پر داغ لگانا۔
 المَشْع - سُرخ مٹی - المَشْعَةُ - بوسیدہ
 کپڑے کا چھپڑا۔
 مَشَق (ن) مَشَقًا - تیزی سے مارنا۔
 جلدی کام کرنا۔ کالسوط - کوڑا
 مارنا۔ الشجر - بالوں میں کنگھی کرنا۔
 الشئ - دراز ہونے کے لیے کھینچنا۔
 الثوب - کپڑا پھاڑنا۔ الناقۃ -
 اونٹنی کو غوراً سا دوہنا۔
 فی الکتابۃ - لمبے لمبے حروف لکھنا۔
 لکھنے میں جلدی کرنا۔
 مَشَق مَشَقًا - لمبا دیتا ہونا۔ صفت
 مَشَق وَمَشِيقٌ وَمَشْوَقٌ -
 مَشَق (س) مَشَقًا - رالوں کے رگڑنے
 سے سوزش ہونا۔ صفت - (مَشَقٌ
 وَاْمَشَقٌ - اسم - المَشْقَةُ)
 مَاشَقَةٌ مَاشَقَةٌ - گالی دینا۔ جھگڑا
 کرنا۔ مَاشَقَةٌ الشئ - کسی سے کوئی
 چیز چھین لینا۔ اَمَشَقَةُ بالسَّوْطِ -
 کوڑے سے مارنا۔
 اَمَشَق - الثوب - کپڑے کو سُرخ مٹی سے
 رنگنا۔
 مَشَق تَمَشِيقًا - الابل الکلاء اونٹ کو
 گھاس چرانا۔
 تَمَشَق الثوب - کپڑے کا پھٹنا۔ پارہ
 پارہ ہونا۔
 الغصن - شاخ کا چھٹنا۔
 اللیل - رات کا گزر جانا۔
 تَمَاشَقُوا - الشئ - اس میں کھینچنا۔
 اَمَشَق - اچک لینا۔ سب دودھ دودھ
 لینا۔ تلوار سوتنا۔ فی الشئ داخل ہونا۔

اپنے لیے لینا۔ ما فی ید الرجل -
 سب لے لینا۔
 المَشَق - مم - سُرخ مٹی - گیرو۔
 المَشَقَّةُ وَالْمَشَاقَةُ - رانچہ کا نکلا ہوا
 خراب دردی حصہ۔ روئی کا گالا۔
 بوسیدہ کپڑا۔ مَشَق -
 المَشَقَّة - نئے کپڑے کا ٹکڑا۔
 المَشِيق - پھٹا ہوا کپڑا۔ لاغزود بلا ٹھوڑا
 المَاشَقُ نا۔ مَشَق - قلم مَشَاق -
 تیز چلنے والا قلم۔
 المَشَقَّة - جانور کی مانگ میں رسی کا نشان
 المَشْوُوق - مفع۔ کم گوشت کا آدمی۔
 مِنَ الْعَبِل - دُبلہ - گھوڑا۔
 مِنَ الْقَصَبَانِ لمبی اور پتلی شاخ۔
 قَدْ مَشْوُوقٌ - لمبا۔ تہا قدر۔
 التَّمَاشَقُ - جھگڑا۔ المَشَقَّة - کتان
 وغیرہ کو صاف کرنے کا آلہ جو کنگھی
 کے مشابہ ہوتا ہے۔ مَشَق مَاشَق -
 مَشَق (ن) مَشْوُوع - لحمہ - گوشت
 کم ہونا۔ مَشَق - اللبن - دودھ
 غوراً دوہنا۔ دَامَشَقُ السَّيْف -
 تلوار سوتنا۔
 المَاشَقُ وَالْمَشْوُوع - دُبلہ کم گوشت والا۔
 المَشَق - کم دوہائی۔
 المَشَق - نرمی سے دوہنے والا۔
 المَشْوُوع - بیٹھی کھٹی کا زرد آلو۔
 المَشْمَش - زرد آلو۔ واحد مَشْمَشَةٌ
 مَشْنَع (ن) مَشْنَعًا - خراش لگانا۔
 بالسَّوْطِ کوڑے مارنا۔ کالسیف
 تلوار مار کر کھال چھین دینا (وامَشَق)
 الناقۃ - اونٹنی کے تھنوں کا سب
 دودھ نکال لینا۔
 صفت (مَاشَق) - مَشَق -
 اَمَشَق السَّيْف - تلوار سوتنا۔
 الشئ - چھین لینا اور اپنے لیے کرنا۔

ثوبد۔ کپڑا اتارنا۔

مَشْنَب۔ الناقۃ۔ اونٹنی کا محل کر دودھ دینا۔

المَشَانُ والمَشَانُ تازہ کھجور عمدہ کھجور اَشْمَشِي۔ دست آور دوا پینا۔ المَشْوُ والمَشْوُ والمَشِي ر المَشَارُ۔

دست آور دوا۔

مَشِي (رض) مَشِيًا و مَشِيًا۔ چلنا۔

بہت مویشی والا ہونا۔ زید۔ ہدایت

پانا۔ اسم (المَشِيَّة) (مَشَاء)

المَرَأَةُ أَوِ الْمَاثِيَّةُ۔ زیادہ

اولاد والی ہونا۔ بالغمیۃ۔ چغلی

کھانا۔ لبطنہ۔ اسہال ہونا۔ دنتوں

کا آنا۔

مَشِي تَمَشِيَّة۔ چلنا۔ الرَّجُلُ۔

چلانا۔

أَمَشِي۔ الرَّجُلُ۔ چلانا۔ أَمَشَاءُ الدَّوَرِ

دوا کا دست لانا۔ (وَأَمَشِي) کسی

کے مویشی کا بہت بچے چلنا۔

مَا شَاكَ مَمَا شَاكَ۔ ساتھ چلنا۔

تَمَشِي۔ چلنا۔

تَمَاشِيًا۔ ساتھ چل کر چلنا۔ المَشِيَّة۔

چلنے کی ہیئت و طرز۔

المَشِيَّة۔ ارادہ۔ المَاشِي۔ فاج مَشَاة

وَمَا شَوْنُ۔ چلنے والا۔ مویشی والا۔

المَشَاط۔ چغلی کھانے والا۔

مِنَ الْعَسْكَرِ۔ پیدل سپاہی۔

الْمَاشِيَّة۔ موٹ المَاشِي۔ مویشی۔

ج مَوَاشِي۔

الْمَشَاوُ۔ بہت چلنے والا چغجور۔

المَمَشِي۔ چلنے کی جگہ۔ گبری۔ راستہ

ج مَمَاشِي۔

مَصْر (رض) مَصَا و تَمَصَّص۔

وَأَمَصَّص۔ اَشْي۔ چوسنا۔

أَمَصَّ۔ اللَّبَنُ۔ چوسنا۔

الْمَصَّ۔ مَصَّ قَصَبُ الْمَصَّ۔ گنا۔ نیشکر۔

الْمَصَّةُ وَالْمَصَّاسُ۔ مِّنَ الشَّيْ خالص

”هُوَ مَصَّاصٌ قَوْمِيہ“ وہ نسب میں

خاص قوم ہے (واحد۔ تثنیہ جمع مذکر

مؤنث سب یکساں ہیں)۔

المَصَاصَةُ۔ جو چیز چوسی جائے۔

المَصَاصُ۔ بہت چوسنے والا۔

پچھنے لگانے والا۔ سینگ لگانے والا۔

الْمَصَّانُ۔ کینہ۔ لیم۔ کینہ پن کی وجہ سے

بھیر بکری کے تھنوں پر منہ لگا کر چوسنے

والا۔ اور مرد کو یا مَصَّان اور عورت

کو یا مَصَّانۃ کہہ کر گالی دی جاتی

ہے۔

الْمَصَّانُ۔ گنا۔ المَصْرُوسُ۔ پکا ہوا

گوشت جو سر کر میں ڈالا جائے۔

ج مَصْرَئِصُ۔ المَصِیصَةُ۔ پیالہ

الْمَصَّصُ۔ چوسنے کا آلہ۔

مَصَّح (رض) مَصْحًا و مَصْحًا۔ اَشْي

جائنا رہنا۔ منقطع ہونا۔ یا شئی لیجانا۔

مَصَّحَتِ الدَّارُ۔ گھر کا نشان ملنا۔

مَصَّح الثَّوْبُ کپڑے کا پُرانا ہونا۔

النبات۔ شگوفہ کا مرجھانا۔

الکتاب۔ کتاب کا ملنا۔

لَبَنُ النَّاقَةِ۔ اونٹنی کے دودھ کا

سوکھنا۔

مَصَّح و مَصَّح (س) مَصْحًا۔ الظِّلُّ

سایہ کا چھوٹا اور پتلا ہونا۔ صفت۔

(أَمَصَّح)

مَصَّح و مَصَّح و أَمَصَّح۔ اللہ مَرَّكَ

خدا تعالیٰ تیرے مرض کو دور کرے۔

المَصَّاحَاتُ۔ جو سے سے بھری ہوئی

اونٹنی کے بچوں کی کھالیں۔

مَصَّح (رض) مَصْحًا۔ اَشْي۔ کھینچنا۔

تَمَصَّح و اَمَتَمَّص۔ کھینچ کر نکالنا۔

أَمَتَمَّص۔ عَن۔ جدا ہونا۔

أَمَصَّح۔ اُولَد۔ بچہ کا ماں کے پیٹ

سے جدا ہونا۔

أَلْأَمَصُوحَةُ۔ بر دی گھاس کا گودا۔

ج أَمَصُوحُ۔ اَمَاصِیخ۔

المَصُوحَةُ۔ وہ بکری جس کے تھن

کی جڑ ڈھیلی ہو گئی ہو۔

مَصَد (ن) مَصَدًا۔ الصَّبِي قَدَّی

اُمہ۔ بچہ کا ماں کے پستان۔ سے

دودھ پینا۔ چوسنا۔ الرَّجُلُ۔

مطیع و فرمانبردار کرنا۔

المَصَادُ۔ بلند نشہ۔ پہاڑ کی چوٹی۔

ج أَمَصَدَةٌ و مَصَدَاتٌ۔

المَصْدُ و المَصْدُ۔ گرمی کی تیزی۔

سر دی کی شدت۔ بادل کی گرج۔

بارش۔ بلند نشہ۔

المَصْدَقَةُ۔ بارش۔

مَصْرَن (مَصْرًا۔ الناقۃ۔ اونٹنی کو

انگیلیوں کے پوروں سے دھنا۔

مَصْرًا العَصِيۃ۔ بخشش کو بند کرنا۔

یا تَقْوَرًا تَقْوَرًا دینا۔

مَصْرُ و المَكَانُ۔ کسی جگہ کو شہر بنانا

الثوب۔ کپڑے کو گیر میں رنگنا۔

تَمَصَّر۔ المَكَانُ۔ کسی جگہ کا شہر ہونا۔

الْمَشِي أَوِ الْعَطَاءُ۔ کم ہونا۔

القوم۔ قوم کا پرانہ ہونا۔

الْمَشِي۔ پیچھے لگنا۔ تلاش کرنا۔

وَأَمَتَمَّص۔ الناقۃ۔ اونٹنی کے

دودھ کو انگیلیوں کے پوروں سے

نکالنا۔

المَاصِرُ۔ فاج دو چیزوں کے درمیان کی

روک۔ ناقۃ اَدَاة مَاصِرُ۔

دیر میں دودھ دینے والی یا کم دودھ

دینے والی اونٹنی یا بکری۔

المِصْرُ۔ دو چیزوں کے درمیان کی

ردک۔ دو ملکوں کے درمیان کی

سرد۔ شر۔ ج اَمَصَّار و
مُصَوَّر۔ مَصْر۔ مَلِك مَصْر۔
المِصْرَان۔ کوفہ و بصرہ۔
المِصْرِيَّ۔ مصر کی طرف منسوب۔
مَوْرَث۔ مِصْرِيَّة۔ ج۔ مَصَّار
وَمَصَّارِي۔
المُصَوَّر۔ من ابل و الشاة۔ تقویر
دودھ یا دیر سے دودھ دینے والی بکری
یا آدمی۔ ج مَصَّار و مَصَّارُو۔
مَصَّارُو مَعْمُور۔ کم بخشش۔
المِصْرِيَّ۔ آنت۔ ج اَمَصْرَت۔ و
مَصْرَان و ج مَصَّارِيْن۔
المِصْرِيَّ۔ گیس سے رنگا ہوا۔
المِصْرَت۔ کتے بڑے سوت کا گولا۔
المِصْطَلٰی و المِصْطَلٰی و المِصْطَلٰی
مصطلی کا درخت۔ مصطلی۔
مَصَّع (ن) مَصَّعًا۔ البَرْق۔ بجلی کا
کوندنا چمکنا۔ الدابة بذنبها۔
جانور کا اپنی دم ہلانا۔ فلاناً۔
کسی نو کوڑے وغیرہ سے مارنا۔
الفرس۔ گھوڑے کا ہلکی رفتار سے
گزرنا۔ الطائر بوزرقہ۔ پرندے
کا بیت کرنا۔ المرأة بالوید۔
عورت کا بچہ گرانا۔ فَوَادُ فُلَانٍ۔
خوف یا جلدی کی وجہ سے کسی کے دل
کا پراگندہ ہونا۔ کابلنا۔ (مَصْوَغًا)
لَبَنُ النَّاقَةِ۔ آدمی کے دودھ کا
خشک ہونا۔ یا کم ہونا۔ آدمی کی صفت
رَمَاصِع و مَاصِعَت۔ ماء الحوض
حوض کا پانی کم ہونا۔ الرَّجُلُ فِي
الْأَمْرَيْنِ۔ جانا۔ سفر کرنا۔
اَمَصَّع۔ الباسور بوزرقہ۔ پرندہ کا
بیت کرنا۔ العوسج۔ عوج درخت
کا پھل لانا۔ المَعْرَاة و ولدها۔ عورت
کا بچہ کو دودھ کم پلانا۔

و اَمَصَّعَتْ به۔ بچہ گرانا۔ انقوم
بے دودھ والی اونٹنیوں کا مالک ہونا۔
فُلَانٌ بِحَقِّهِ۔ کسی کے حق کا اقرار کرنا۔
مَاصِع مِصَاعًا و مِصَاعَةً۔ جنگ و قتال
کرنا۔ قَرْيَةً۔ تلوار وغیرہ۔ لانا۔
بَلْبَسَانِہ۔ تہمت لگانا۔ تَمَاصِعُ
انقوم فی العرب۔ آپس میں بکڑنا۔
یا ہم جنگ کرنا۔
اِمَصَّع و اِمَصَّعِي۔ فی اللہ۔ زمین
میں جانا۔ سفر کرنا۔ اِمَصَّعُ الْجَنَاحِ
گدھے کا اپنے کانوں کو کھرا کرنا۔
المِصْعَنَةُ و المِصْعَنَةُ۔ ایک جھوٹا
پرندہ۔ عوج جہاز کا پل۔ ج مِصْعُ
و مِصْعُ۔
المِصَابِہ۔ نا۔ کھار۔ پانی۔ تقویر اگلا چمکنا
پشت پھیرنا۔ والا۔ موٹ۔ مَاصِعُ
المِصْعُ۔ تلوار۔ کڑے والا۔ تلوار یہ۔
المِصْرَعُ۔ ڈپرول۔
مِصْل۔ نالہ۔ مِصْل۔ اللبَن۔ پانی پیکانے
کے لیے دودھ کپڑے میں لگانا۔ مَاصَا
بے خبر کاموں میں مال صرف کرنا۔
لغویات میں اٹھانا۔
(مِصْلًا و مِصْلًا) الجَبْنُ و خُبْر۔
پکنا۔ الجَرَّاحُ۔ زخم کا رستہ۔
اِمَصَّل۔ مَاصِل۔ مال کو بے فائدہ خرچ کرنا
لغویات میں اڑانا۔ اَلْمِصْعَمُ۔ بکری
کا سارا دودھ دہنا۔ اِمَصَّعَتِ
الْمَرْأَةُ۔ عورت کا قابلِ ازدواج
بچہ گرا دینا۔ ادھورا بچہ گرانا۔ صفت
(مِصْعَلِہ)
المِصْل۔ مہر و المِصَالَت و المِصَالَت
من اللبن و خبز۔ دودھ وغیرہ سے
پکا ہوا پانی۔ المِصَالَت۔ شے وغیرہ
سے پکنا ہوا پانی۔
المَاصِل۔ نا۔ تقویر دودھ یا تقویر بخشش

المِصْلَاة۔ پتے بازوؤں والی عورت۔
المِصْل۔ دودھ سے پانی پیکانے کا
برتن۔ لغویات میں مال برباد کرنے
والا۔
مِصْمَص۔ الماء۔ پانی کو زبان سے
بلانا۔ الثوب۔ کپڑا دھونا۔
المِصَامِص۔ خالص پیاز۔
مِصْق (ن) مِصْقًا و مِصْقِيًّا۔
الجرح فُلَانًا۔ زخم کا درد دیکھ
دینا۔ المِصَامِص۔ العین بعد تہ
سرمہ کا آنکھ میں سوزش پیدا کرنا۔
الْخَلُّ۔ ناک۔ سرکہ کا منہ کو بلانا۔
الشئُ مِصْقًا۔ چیز کا کسی کو دکھائی دینا
درد مند ہونا۔ (مِصْقًا) : الشئُ
چوستا۔
مِصْق (ن) مِصْقًا۔ من الشئ۔
درد مند ہونا۔ (مِصْقًا و مِصْقًا)
و مِصْقِيًّا۔ کسی شے سے دیکھی
ہونا۔
اَمَصَّع۔ الاَصْر۔ جلانا۔ درد مند کرنا۔
جلد کا کھجنا۔
مَاصِعَةٌ مِصَاعًا۔ منتِ ملامت کرنا۔
مِصْمَص۔ تَبْنِيصًا۔ ترش دودھ پینا
کھاری پانی پینا۔
تَمَاصُّ۔ انقوم۔ قوم کا آپس میں جھگڑنا
المِصْقُ مِمَّ جھلی کرنے والا۔ سوزش پیدا
کرنے والا۔ درد و الم پہنچانے والا۔
المِصْقَةُ۔ اسم مرء۔ موٹ۔ المِصْقُ۔
امْرَأَةٌ مِصْقَةٌ۔ وہ عورت جو
تکلیف دہ چیز کو برداشت نہ کر سکے۔
الْبَانُ مِصْقَةً۔ ترش دودھ۔
المِصْمَصُ مِمَّ۔ مصیبت کا درد۔ دکھ۔
کھا دودھ۔
المِصْمَصُ۔ جن۔ سوزش۔
المِصْمَصُ۔ خالص۔ نہ پی جا سکے والا



کھادی پانی، آنکھ کی سرسبز، دلیلی۔
 الْمَصْنُوعُ - جلانے والا۔
 مَصْنَح - (ف) مَصْنَعًا وَاَمَصَحَ - عجب لگانا۔ مَصْنَعٌ عَذْرٌ بھٹانا، دفع کرنا۔
 - الشمس، سورج کی شعاعوں کی زین پر پھیلنا۔ (الایلی: اونٹوں کا بھڑنا۔
 منتشر ہونا۔ المَزَادَةُ: رشنا۔
 مَصْنَدًا مَصْنَدًا - لیٹے رکھنا۔
 مَصْرَدَن، مَصْرَدٌ (د) و مَصْرَدٌ (س) مَصْرَدٌ و مَصْرَدٌ و مَصْرَدٌ - التَّبِيْدُ اَوِ اللِّبْنُ - بیدہ یا دودھ کا ترش ہونا۔
 مَصْرَدٌ - قبیلہ مصر کی طرف نسبت کرنا۔
 مَصْرَدٌ اللہ کے الشَّكَاہ - خدا تعالیٰ نے اس کی اچھی تعریف بتائی۔
 تَمَصَّرٌ - قبیلہ مصر کی طرف منسوب ہونا یا اس کے ہم رنگ ہونا۔ تَمَصَّرَتْ النَّمَا بَشَبِيَّةٌ - مولیٰ کا موٹا ہونا۔
 لَبَنٌ مَصْرَدٌ و مَافِوہ و مَصْرَدٌ کھٹا دودھ۔ عَشِشٌ مَصْرَدٌ آسودہ زندگی۔ ذَهَبَ ذَمُّهُ خَصْرًا مَصْرَدًا و حَصْرًا مَصْرَدًا - اس کا خون رگڑا گیا۔
 الْمَصْرُورَةُ - ترش دودھ میں پکا ہوا کھانا۔
 الْمَصْرَارَةُ - ترش دودھ کا پانی۔
 مَصْنَعٌ رَفَن (ن) مَصْنَعًا چبانا۔
 مَاصِغٌ - دیر تک روتایا جھکھڑنا۔
 اَمَصَّحًا و مَصَّحًا - اشیاء، حیوانا اَمَصَّحَ النَّمْلُ بِمَحَلِّهِ جَانِئِهِ کے قابل ہونا۔
 اَلْمَدَامُ چانانا۔ (و) اَلْمَدَامَةُ دُنْ چیز جو چبائی جائے چبائی ہوئی چیز کا منہ میں بقیہ۔
 اَلْمَا صَحٌ - فاجہ مُفْتَحٌ اَلْمُسْتَعْمَلُ گوشت وغیرہ کا ٹکڑا۔
 مُصْنَعُ الْأُمُور - معمولی چھوٹے کام اَلْمُصْنِفُ - بڑی پرگاہ گوشت جیڑا

عَصْلَةٌ ج: مَصْنِيْعٌ و مَصْنِيْعٌ - اَلْمَصْنُوعَةُ - بے وقوف - بہت جانے والا۔
 اَلْمَا صَغَانٌ - دونوں چپڑے - اَلْمَوَاقِعُ و اَلْمَوَاقِعُ -
 مَصْنَعٌ مَصْنَعٌ و مَصْنَعٌ و مَصْنَعٌ اَوِ مَصْنَعٌ - اَلْمَاءُ بکلی کرنا۔
 اَلتَّرَبُّ و عِزْمٌ - کپڑا دھونا۔ تَمَصَّصَ السُّنَّاسُ فِي عَيْنَيْهِ رَاكِبًا كَالْخُفَّاءِ میں گھل جانا۔ سرایت کرنا۔
 تَمَصَّصَ - اَلْكَلْبُ فِي اَثَرِهِ - کتے کا کسی کے پیچھے بھونکنا۔
 اَلْمَصْنُوعُ - جلن نیند - پھرتیلا آدمی۔
 اَلْمَصْنُوعَةُ - مَم - کٹی، ساپ وغیرہ کی آواز۔
 مَصْنِي تَمَصَّصِي و مَصْنِي تَمَصَّصِي و مَصْنِي تَمَصَّصِي - اَلشَّيْءُ گزر جانا۔ (مَصْنُوًّا سَبِيْلًا و لِسَبِيْلٍ - مَرْنَا -
 مَصْنِي تَمَصَّصِي و مَصْنِي تَمَصَّصِي و مَصْنِي تَمَصَّصِي - اَلْأَمْرُ کسی امر پر بھیجی کرنا کام کا پورا کرنا۔ پورا کئے ہوئے کام کو۔
 مَصْنُو عَيْنِي کہتے ہیں۔
 عَلَى الْبَيْعِ - سودا کرنا مَصْنِي مَصْنَاءَ السَّيْفِ: تلوار کا کٹنا۔
 اَمَصَّصِي اَمَصَّصًا - اَلْأَمْرُ: نافذ کرنا جاری کرنا۔ کام پورا کرنا۔ سودا ختم کرنا حکم کرنا۔ اسباب وغیرہ پر دستخط کرنا۔
 مَصْنِي تَمَصَّصِي - اَلْأَمْرُ: نافذ کرنا۔
 تَمَصَّصِي اَلْأَمْرُ - نافذ ہونا اور پورا ہونا۔
 - اَلرَّجُلُ - آگے بڑھنا۔
 اَلْمَصْنُوَاءُ - ترقی آگے بڑھنا۔
 اَلْمَا صَحِي - فاجہ گذشتہ زمانہ عِنْدَ الْحَاكِمَةِ - وہ قفل جو گذرے زمانہ پر دلالت کرے۔ تلوار جو مواضی اَلْمَصْنَاءُ - سچے ارادہ والا۔
 مَطَانٌ مَطَانٌ اَشْيَاءٌ - پھیلنا۔

اَلدُّو كَهْنِيَا - حَدَّاءٌ يَكْبُرُ كَرْنَا مَطَطٌ - زور سے کھینچنا۔ گالی دینا۔
 تَمَطَّطٌ - کھینچنا چھٹنا۔ لبا کر کے اور سجا کر کلام کرنا۔
 اَلْمَطَاطُ - اونٹ کا گالہا گھٹا دھونا۔
 اَلْمَطِيطِي وَاَلْمَطِيطَاءُ وَاَلْمَطِيطَاءُ - مغرورانہ چال - غرور - چپنے میں دفنوں ہاتھوں کو پھیلانا۔
 اَلْمَطِيطَةُ - گالہا گالہا پانی جو مَطَاطُ مَطَحَتُ (ف) مَطَحَتُ - بیدہ - مارنا۔
 تَمَطَّحٌ وَاَمْتَطَحٌ - اَلْوَادِي - وادی کا پانی نہادہ اور بلند ہونا۔
 مَطَحٌ (ف) مَطَحًا - اَلْعَسَلُ - شہر چاٹنا۔
 - اَلرَّجُلُ بیدہ - مارنا - عَمَرُ صَبَ - عزت خراب کرنا۔
 اَلْمَا طَحٌ - فاجہ - سست رہنا گھوڑا۔
 اَلْمَطَا حٌ - بے وقوف - شکستہ زبان - جھوٹا۔
 مَطَرَت (ن) مَطَرًا و مَطَرًا - اَمَطَرَتِ السَّمَاءُ - آسمان کا بارش برسانا۔
 - السَّمَاءُ اَلْقَوْمُ - آسمان کا قوم پر بارش برسانا۔
 اَمَطَرَتِ اَلرَّجُلُ - پیشانی پر پسینہ آنا۔ بارش میں ہونا۔ اَمَطَرَتِ اَلْمَكَّانُ - کسی جگہ کو بارش برسا ہوا پانا۔
 مَطَرَت (ن) مَطَرًا و مَطَرًا - گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ اَلْقَرْدِيَّةُ - مشک بھڑنا۔ اَلْقَرْدِيَّةُ - پرندے کا تیری سے اترنا۔ (مَطُوْرًا) - خ۔
 اَلْأَرْضُ - جانا۔ اَلْعَبْدُ - غلام کا بھاگنا۔ اَشْيَاءٌ - بلند ہونا۔
 تَمَطَّرَ - بارش کے سامنے ہونا۔ بارش مانگنا۔
 - اَلرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ جانا۔ اَلْكَفَرُ تیزی سے اترنا۔ یہ فہم سہ۔
 سوار کو کے تیز دوڑ جانا۔
 اِسْتَمَطَرَ اَللَّهُ - اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنا



— الْمَكَانُ أَوْ الزُّدْعُ کسی جگہ یا
کھیتی کا بارش کا محتاج و ضرورت مند ہونا
— الرَّجُلُ — بارش سے چھینا —
چپ ہونا — توبہ — برساتی ہیندا
اسْتَنْطَرْنَا فَلَمَّا مِثْلُ فُلَانٍ کسی سے
بخشش کی التجا کرنا —
الْمَطَرُ — بارش — جہ — امطار —

الْمَطَرُ — عادت — رسم —
الْمَطَرُ — بوجھ — ر — وَالْمَطَرُ
الْمَطَرُ — عادت — الْمَطَرُ —
مشک حومن کا وسط — الْمَطَارُ وَ
الْمَطَارَةُ مِنَ الْبَارِ — چوڑے منہ

کا کنواں — الْمَطَارُ — تیز دوڑنے والا
گھوڑا —

الْمَطَرُ وَالْمَطَرُ وَالْمَطَرُ — بارش
والا موسم — سحاب مِمَطَارُ —
بہت برسنے والا بادل —

الْمَطَرُ وَالْمَطَرُ — بارانی برساتی
عالم لوگ اس کو "الْمُسْتَمِعُ" کہتے ہیں
الْمُسْتَمِعُ — ٹھہر کر برسنے والا بادل
الْمُسْتَمِعُ — تیز گھوڑا، تیز گھوڑے
کا سوار — بارش کے بعد ہوا خوری کرتے
والا —

الْمُسْتَمِعُ — فا — بارش کا محتاج عطیہ
ماگنے والا خاموش —

الْمُسْتَمِعُ — مقہ — بارش کے لئے کھامی
الْمَطَرَانِ وَالْمَطَرَانِ — لاٹ — پادری
مَطَرٌ مَطَرًا وَ مَطَرًا فِي الْأَرْضِ —
کبیں جا کر گم ہونا — الشیء جیر کو اگھ
دانوں سے کھانا —

الْمَطَرُ — فا — خالص —
تَمَطَّقَ — کھانا چکھنا —
الْمَطَقَةُ — مٹھاس —
مَطْلٌ (ن) مَطْلًا — الجبلُ — سی تانا —

— الْحَيْدُ — لوہے کو بڑھانے کے لئے
کوٹھا پٹینا — لوہے کو گھٹا کر چوڑا کرنا
— حَقٌّ وَ بَحَقٌّ — مال مٹول کرنا —
مَا طَلَمَ مِطْلًا وَمَا طَلَمَ — بحَقِّ —
ادائیگی میں مال مٹول کرنا —
اِمْتَطَلْتُ خَتَمًا — مال مٹول کرنا پودے
کا لمبا اور گنجان ہونا —

اِمْتَطَلْتُ الشَّيْءَ — چیز کا دراز ہونا —
اِمْتَطَلْتُ وَالْمَطَلَةُ — حوض کی تہ میں
بقیہ پانی —

اِمْتَطَلْتُ — تھوڑا سا پانی جو مشک سے گے
اِمْتَطَلْتُ — قلعی گر کا پیشہ — لوہے کے
کمانے یا پگھلانے کا کام —

اِمْتَطَالٌ — لوہے کو پگھلانے والا —

قلعی گر — وَالْمَطُولُ — بہت
مال مٹول کرنے والا — اِمْتَطَيْكُمُ
کوٹھا ہوا ہوا — چوڑا کیا ہوا ہوا —

اِمْتَطَلُ — چور — لوہار کا گھن —
مَطَمَطٌ — بولنے یا کہنے میں سستی کرنا —

مَطَا يَمْطُو مَطْوًا — چلنے میں جلدی
کرنا — بِالْقَوَمِ — دیر تک چلنا —

مَطِيٌّ يَمْطِي مَطًا — لمبا ہونا — دراز ہونا
اِمَطَى الدَّابَّةَ — سوار ہونا —
سواری بنانا —

اِمَطَاةُ الدَّابَّةِ — سوار کرنا
اِمَطَى — الدَّابَّةَ — سوار ہونا —

تَمَطَّى — دراز و لمبا ہونا — الرَّجُلُ
لمبا ہوتا چلنے میں گھسٹے باز و پھیلتا
اِمَطَا — پیٹھ — تشبیہ مکھوان جہ
اِمَطَا —

اَلْمَطْوُودُ اَلْمَطْوُودُ — وہ شاخ جس کو چیر
کر گٹھا باندھا جائے — جہ —

مَطَاً وَ اِمَطَاً وَ مَطِيً
اَلْمَطْوَا — انگرہائی لینا — لمبائی —

وسعت المَطْوَةِ — گھنڈہ — لومینٹ

اَلْمَطِيَّةُ — سواری کا جانور (بزرگ موٹ)
جہ — مَطَايَا وَ مَطِيٌّ —

اَلْمَطِيَّةُ — سیدھے قد والا — ایک قسم کا گوند
مَطَطٌ (ن) مَطَطٌ — ملامت کرنا —

مَا طَلَمَ مَطَاً وَ مَطَاً طَةً — جھکنا
گالی دینا — دشمن سے چمٹنا —

اِمَطَنَ — گالی دینا —

تَمَاتَطُوا اِیْسَیْنِ مِیْ جھکنا کرنا — باہم
گالی دینا کرنا —

اَلْمَطَّ — مہر — جنگلی انار — ایک قسم کے گوند
کا برخِ عَصَا —

اَلْمَطَاظَةُ — کھراپن — بد مزاجی —

مَطْعَ (ن) مَطْعًا وَ مَطْعَ اَلْوَشْرِ —
تانت کو خشک اور چکن کرنا —

تَمَطَّحَ اَلْمَاكُولُ — سب کا سب چٹ

جانا — اِنطَلَّ — سایہ ادھر ادھر
تلاش کرنا — فی الزَّاعِی — چرانے

کے وقت سے دیر کرنا —
اَلْمُطْعَمُ — گھاس کا بقیہ —

مَعَ وَ مَعَ — ساتھ — وقت پر — باوجود
مَعًا — تیرے ساتھ —

مَعَ اَلْعِشِيَةِ — شام کے وقت
مَعَ ذَلِكْ — باوجود اس کے تاہم

اَللّٰهُ مَعَنَا — اللہ ہمارے ساتھ ہے
اللہ ہمارا مددگار ہے — مَعَ كَوْنِهِ عَنَّا —

باوجود اس کے غنی ہونے کے —
مَعًا — ایک ہی وقت میں اکٹھے (حال

ہونے کی وجہ سے منسوب)
مَعِيَّتًا — ساتھ — تعلق — شاہزادہ کا

پرائیویٹ مکان —
مَعَ (ن) مَعًا — چربی کا پگھلنا — مَعَتَّ

(ن) مَعَتًا — الشیء — ملنا —
مَعَجَز (ن) مَعَجًا — گھوڑے کا نرمی آمد

تیزی سے چلنا — صفت (مَعَزْ ج)
مَعَجَزُ الْبَحْرِ — سمندر کا موجزن ہونا جوش مارتا

مَا أَمْعَزَ رَأْيُكَ - وہ کس قدر مضبوط
رائے والا ہے۔
الْمَعَزُ وَالْمَعَزُ - بکری، اسم جنس ہے واحد
(مَعَزٌ) جمع (مَعَزُونَ) - زمین کی سختی۔
الْمُعَوِّذُ - آمناؤں کا دعا دہنے والا۔
وَالْمُعْزِي وَالْمُعْزِي - بکری۔
الْمُعَوِّذُ - تیس چالیس کے درمیان
ہرگز کا نکل۔
الْمُعْزِي - معز کا واحد۔ بکری، بکری
کبھی بکری کو معزہ بھی کہتے ہیں
جمع (مُعْزُونَ)۔
الْمُعْزِي وَالْمُعْزِي - بکری۔
چست کو شش کرنے والا۔
بکری کی کھال۔
الْمُعْزَاةُ - بکری۔
الْمُعْزِي - سخت پھری زمین یا جگہ۔
مؤنث (مُعْزَاةٌ) جمع (مُعْزَاةٌ) و
مُعْزَاةٌ وَاَمَّا عِيْدُ -
الْمُعْزَاةُ - بکریوں والا۔ گڈریا چرواہا
الْمُعْزِي - بکری۔
معص (مَعَصَا) - بکریوں کی چوڑی
سے ملنا۔ الرجل: توہین و بے عزتی
کرنا۔ نیشہ مارنا۔
الْمُعْصِي - دودھ۔ حرکت
الْمُعْصِي وَالْمُعْصِي - لڑائی میں
آگے بڑھنے والا۔
مَعْصَا (مَعَصَا) - الرجل: پاؤں
میں موج آنا۔ زیادہ چلنے سے پیچھے
میں دروہونا۔ صفت (مَعْصَا) و
مَعْصَا -
تَعْصَا بَطْنُهُ - پیٹ کا درد کرنا۔
الْمُعْصَا - شرمندہ ہونا۔
مَعْصَا (مَعَصَا) - مَعْصَا وَاَمَّا عِيْدُ -
مِنْ اَلْمُعْصَا - غضبناک ہونا صفت

تَمَعَّدَ - اَلْعَلَامُ - لڑکے کا جوان ہونا
بیمار کا تندرست ہونا۔
مَعْدَر (مَعْدَر) - الْمَعْدَر - الريح او الشجر
بال کم ہونا۔ اَلْمَعْدَر - بشتی
گنچی ہونا۔ اَلْمَعْدَر - ناخن کا چر
دغیر سے گر جانا۔
مَعْدَر - غریب ہونا۔ بے ترشہ ہونا۔
چہرہ کو غصہ سے بدلنا۔
الْمَعْدَر - الريح او الشجر - بال دیکھنا
الْمَعْدَر - محتاج و فقیر ہونا۔
الْمَعْدَر - الارض - کم نباتات والی
ہونا۔ الرجل: کسی کا مال چھین کر
اس کو نکال کر دینا۔ القوم: قوط
زود ہونا۔ بے سبزی والی زمین میں آنا
الْمَعْدَر - الارض - مریخی کا
سب گھاس چر جانا۔
تَمَعَّدَ - وَجْهَهُ - چہرہ کا بدلنا۔
رَأْسُهُ - سر کے بالوں کا گر جانا
الْمَعْدَر - بخلی ترش روئی۔
الْمَعْدَر - بے بالوں یا کم پروں والا۔
چوٹ وغیرہ سے گرنی والا ناخن بخیل
تھوڑے گوشت والا۔ منگی زمین۔
الْمَعْدَر - کم بالوں والا کم نباتات والی
زمین۔ بال اُترا ہوا موزہ۔ مؤنث
مَعْدَر - جمع (مَعْدَر)۔
الْمَعْدَر - غصہ سے تیوری پڑھنا والا
مَعْدَر (مَعْدَر) - الشجر - سخت ہونا۔
صفت (مَعْدَر وَاَمَّا عِيْدُ)۔
الْمَعْدَر - کام میں کوشش کرنا۔
(مَعْدَر وَاَمَّا عِيْدُ) - بہت بکریوں والا ہونا
مَعْدَر (مَعْدَر) - بکریوں کو بھیر دے
الگ کرنا۔
تَمَعَّدَ - وَجْهَهُ - چہرہ کا تیوری والا ہونا
الْمَعْدَر - اونٹ کا تیر دوڑنا۔
اِسْتَعْمَدَ - کام میں کوشش کرنا۔

السَّيْلُ - سیلاب کا تیز بہنا۔
يَنْقَلِبُ فِي الدَّوَاةِ - قلم کو دوات میں ملانا
کہ اس پر روشنائی بھی طرح لگ جائے
الْمَعْدَر - صَدْرُ امَةٍ - اونٹنی
کے بچہ کا دودھ اتارنے کے لئے سروانا
تَمَعَّدَ - السَّيْلُ او الْحَيَّةُ - پیچ و تاب
کھاتے ہوئے گذرنا۔
الْمَعْدَر - مصر - اضطراب - لڑائی۔
ہوا کا نرم چلنا۔
الْمَعْدَر - جوانی کا آغاز۔ الْمَعْدَر
اسم مبالغہ۔ حیاتِ معجزہ۔ دورے
میں ادھر ادھر ہونے والا گدھا۔
مَعْدَر (مَعْدَر) - الشجر - جھپٹ
لینا۔ اچک لینا۔ الشجر - تیزی
سے کھینچنا۔ الرِّيح - ہرگز سے کھینچنا
فی الارض - دور کا سفر کرنا۔
الْمَعْدَر - تیار ہونا۔ کھانا
گوشت کو آگے کے دانتوں سے کھانا۔
السَّيْفُ - تلوار سونٹنا۔
الْمَعْدَر - کسی کے مدد پر مارنا (مَعْدَر) و
وَمَعْدَرًا - بالشجر سے جانا۔
الْمَعْدَر - لڑو و بھا۔ لڑو کھینچنا۔
اور کنویں سے نکالنا۔
مَعْدَر - معدہ کے درد والا ہونا۔ صفت
(مَعْدَر)۔
اِسْتَعْمَدَ الشَّيْءُ - چھین لینا۔ اچک لینا
الْمَعْدَر - مہم۔ مولد و تازہ و نرم پھل
نرم سبزی تیز رفتا راؤنٹ۔
کہتے ہیں مَا كُنَّا تَعْدُو وَلَا مَعْدُو۔
اس کے پاس نہ تھوڑا ہے نہ بہت
الْمَعْدَر - پیٹ۔ پیلو۔
الْمَعْدَر - مَعْدَر - معدہ۔ ج
مَعْدَر وَاَمَّا عِيْدُ۔
اِسْتَعْمَدَ - من الرطب - تازہ رس
دار کھجوریں۔

(مَعْصُومٌ دَکَا عَصْفٌ)
مَعْصُومٌ دَامْعَصْفٌ عَضْبَانُکَ کرنا۔
دورمند کرنا۔ اَمْعَصُ الشَّيْءُ:
چیز کو جلانا۔
مَعْطُوفٌ (رَفٌّ) مَعْطَا الشَّيْءِ یُکْهِیْنِیَا۔
— الرِّبَیْثُ۔ پَر نوجا۔ سَخْنٌ فَلَکَیْ
حق کی ادائیگی مال دینا۔ (وَامْعَطُ)
السَّیْفُ۔ تلوار سوزنا۔
مَعْطُوفٌ (رَفٌّ) مَعْطَا وَتَمْعَطُ۔ الذَّرْبُ
بھیر ٹپکے کا گے ہوئے بال والا ہونا
صفت (مَعْطُوفٌ وَامْعَطُ)
تَمْعَطُ وَامْعَطُ وَتَمْعَطُ وَامْعَطُ
الشَّعْرُ۔ بالوں کا کسی بیماری سے
گر جانا۔
إِمْعَطُ وَامْعَطُ الشَّہَادُ۔ دن کا لمبا
ہونا۔
إِمْعَطُ وَالْأَمْعَطُ۔ وہ جس کے بدن پر
بال نہ ہوں۔ مَوْنَتُ مَعْطَا ج:
مَعْطُوفٌ۔ اَرْضٌ مَعْطَا بَنَی رَیْنِ
مَعْطُوفٌ۔ (رَفٌّ) مَعْطَا دُکُلُ کَاکَرِیْنِ۔
سیلاب کا زمین کو بہاے جانا۔
مَعْطُوفٌ مَعْطَا۔ خراب معرہ والا ہونا۔
مَعْطُوفٌ (رَفٌّ) مَعْطَا وَمَعْطَا۔ النَّهْرُ
ندی کا گہرا ہونا صفت (مَعْطُوفٌ)
مَوْنَتُ مَعْطَا۔
إِمْعَطُ الْبُیْرُ۔ کنویں کو گرا کرنا۔
إِمْعَطُ۔ گہرا ہونا۔ کہتے ہیں تَمْعَطُ
إِمْعَطُ عَلَیْکَ۔ اس نے ہارے ساتھ
پر تھکی۔
إِمْعَطُ وَامْعَطُ وَامْعَطُ۔ گہرائی ج:
إِمْعَطُ وَامْعَطُ وَامْعَطُ۔ بَجَرِزِیْنِ۔
مَعْطُوفٌ (رَفٌّ) مَعْطَا الشَّيْءِ۔ ملنا۔
— الرَّجُلُ۔ ذلیل کرنا۔ بے عزتی
کرنا۔ فَلَکَا فِی الْخَصْمِ مَرَّةً۔

غالب آنا۔ مَعْطُوفٌ دَیْنُکَ وَبَیْدُیْنِکَ
قرض ٹالنا۔
مَعْطُوفٌ (رَفٌّ) مَعْطَا بَیْدُیْنِکَ وَدَقْرُفُ ہونا
مَعْطُوفٌ۔ زمین پر لوٹ پوٹ کرنا۔
مَعْطُوفٌ۔ زمین پر لوٹ پوٹ ہونا۔
مَا عَمَلُکَ مِمَّا عَمَلُکَ بَیْدُیْنِکَ۔ قرض کو
ٹالنا۔
إِمْعَطُ۔ (رَفٌّ) بھیکڑا۔
(— اَلْمَعْطُوفُ) قرض ٹالنے والا۔
مَعْطُوفٌ (رَفٌّ) مَعْطَا الشَّيْءِ چھین لینا
اچھ لینا۔ اَلْخَشْبَةُ۔ ٹکڑی
چیرنا۔ اَمْرَہ کا دم بھرتی اور
چستی سے کرنا۔ الرَّجُلُ جلدی
چلنا۔
مَعْطُوفٌ وَامْعَطُ اَمْعَطُ عَنِ الشَّيْءِ بھرتی سے
بٹھا دینا۔
إِمْعَطُ۔ الرَّجُلُ۔ پے درپے نیزہ مارنا
اَمْعَطُ مَنِ الدَّائِرِ۔ پھرتیلا،
جلد باند۔
اَلْمَعْطَا۔ بَرائی شرارت
مَعْطُوفٌ۔ جلدی کام کرنا۔ الشَّيْءُ
اَلْمَعْطُوفُ جلیبی چیز کا آواز دینا۔
اَلْقَوْمُ مَعْطُوفٌ سَخْتٌ قَتْلُ کرنا۔ سخت
گرمی میں چلنا۔ الرَّجُلُ بایست
میں لفظ ”مَعْطُوفٌ“ زیادہ استعمال کرنا۔
— السَّمَاءُ الْمَطْرُ۔ آسمان کا سخت
بارش برسانا۔
اَلْمَعْطُوفُ۔ نیز خاطر عورت۔ اَلْمَعْطُوفُ
مَعْطُوفٌ۔ زکل کے چلنے کی آواز۔ جنگ
میں لڑنے والوں کا شور و غل۔ گرمی کی
تیزی ج مَعْطَا۔
اَلْمَعْطَا۔ لڑائیاں۔ نپٹنے
اَلْمَعْطُوفُ۔ جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو
اور ہر ایک کی رائے کے ساتھ شامل
ہو لے۔

اَلْمَعْطُوفُ وَاَلْمَعْطَا فِی سَبْعِ الْاَیَامِ
سخت گرم دن
اَلْمَعْطُوفُ۔ سخت گرمی یا سردی۔
مَعْطُوفٌ (رَفٌّ) مَعْطَا۔ اَلْبَعْثَةُ۔ کھڑا
نعت کرنا۔ بَانْتَقِی۔ حق سے انکار
کرنا۔ حق کا اقرار کرنا (مَعْنِ)
مَعْطُوفٌ (رَفٌّ) مَعْطَا وَمَعْطُوفٌ (رَفٌّ) مَعْطَا
اَلْمَاءُ۔ پانی کا نرم رفتار سے بہنا
صفت (مَعْطُوفٌ)۔ مَعْطُوفُ الْفَرْسِ
گھوڑے کا دور تک دوڑنا۔
اَلْمَطْرُ الْاَرْضُ۔ بارش کا زمین کو سیراب کرنا
مَعْطُوفٌ (رَفٌّ) مَعْطَا۔ اَلْمَاءُ کَانَ دَانْتَقِی
پانی سے سیراب ہونا۔
اَمْعَطُ۔ فِی الطَّلَبِ۔ ڈھونڈھنے میں
مبالغہ کرنا۔ رَفٌّ اَلْمَاءِ۔ معاملہ کی
شہد تک پہنچنا۔ اَلْقَبْ فِی تَجَرَّةِ
گوہ کا اپنے سوراخ میں دور تک پہنچ جانا
— اَلْفَرْسُ۔ گھوڑے کا دور میں
دور تک نکل جانا۔ اَلْقَبْ فِی الْاَمْرِ
کسی معاملہ کو بہت گہرائی تک سوچنا۔
— اَلْوَادِی۔ بہت جاری پانی والی
ہونا۔ کَالْمَاءِ۔ زیادہ ہونا کم ہونا
(مَعْنِ)۔ اَلْمَاءُ۔ آہستہ آہستہ بہنا۔
— فَلَکَا اَلْمَاءُ۔ پانی بہانا۔
تَمْعَطُ۔ ذلیل ہونا۔ حقیر ہونا۔
اَلْمَعْطُوفُ۔ مَعْطُوفٌ۔ مفید چیز۔ بہت کم۔
آسان۔ لمبا۔ چھوٹا۔ ادھوڑی،
سرخ چمڑا۔ بہت یا تھوڑا (مَعْنِ)
ذلت۔ کھلے میدان کا پانی۔
اَلْمَعْطُوفُ۔ مَعْطُوفٌ کا اسم مرہ کہتے ہیں
”مَا لَمْ سَعْنَةُ وَلَا مَعْطُوفٌ“
اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔
اَلْمَعْطَا۔ منزل۔
اَلْمَاءُ عَوْنُ۔ بارش۔ پانی۔ گھر میں برتنے
کی چیزیں مثلاً کھانا پانی یا اور



خانگی اشیار۔ جھلائی۔ نیکی۔ فرمانبرداری
 زکوة۔ عوام کے زکوٰۃ کا غذا کیم
 یادستہ
 الہدیہ۔ جاری پانی۔ بہت پانی۔ جہ
 وہ گھاس جس میں پانی جاری ہو۔
 سیراب یا ہرباغ۔
 تمعنیٰ۔ یعنی۔ معنی سمجھانا یا بیان کرنا
 معا یمعو معا۔ السیور۔ بی کا
 میاؤں میں اڑنے کے آواز کا۔
 امعی۔ التعل۔ کی ہوئی کھجور والی
 ہونا۔ البس۔ گذر کھجور کا خوش
 مزہ ہونا۔
 تمعی۔ شرکا پھیلنا چڑے کا تن جانا۔
 المعور۔ کی ہوئی کھجور خوشک ہونے
 لگے۔ اونٹ کے نیچے کے ہنٹ میں
 پھٹن و زخ
 المعی والمعی۔ جہ امعاء والمعاء
 جہ امعیۃ۔ آنت۔
 مذکر ہے اور کبھی مؤنث بھی مستعمل ہے
 مغت (ن) مغتاً۔ الداء فی الماء
 دوا کو پانی میں بھگنا۔ الرجل
 ہلکی مار مارنا، پچھاڑنا۔ مغت الشی
 مخلوط کرنا۔ عرض خلان۔ کسی کی
 عزت خراب کرنا۔
 مغت۔ الرجل۔ کسی پر سہار چڑھنا۔
 ما غتھا مغتاً ومما غتھا جھگڑا کرنا
 المغت۔ مہ۔ انگلیوں سے مل کر نرم کرنا
 رطائی۔ جہ مغت۔
 المغت۔ پانی کے زور سے لیٹی ہوئی گھاس
 شریہ آدمی۔
 الہفات۔ چوڑے پتوں اور سفید پھولوں
 والا ایک درخت۔
 مغت (ن) مغتاً۔ الشی۔ چوستا

الفصیل۔ سچ کا دودھ پینا
 البسات۔ دروازہ ہونا۔
 الرجل فی علیہ۔ اسودہ زندگی بسر کرنا
 شہرہ۔ بال اکھڑنا۔
 العیش البکان۔ موٹا تازہ کرنا
 بلان۔ بھری جوانی والا ہونا۔
 مغت (ن) و مغتاً (س) مغتاً۔ البکان
 بدن کا گشت سے بھرنا۔ موٹا ہونا۔
 امغدا۔ دیر تک پینا۔ الصبی
 بچہ کا دودھ پلانا۔
 المغد۔ مہ۔ عیش مہ۔ خوشحال
 زندگی۔ بول یا پیری کا گوند۔ بڑا
 ڈول۔ لکڑی کے شاخ ایک پھل۔
 ایک قسم کا درخت۔
 مغرت (ن) مغتاً۔ فی البکان۔ جلدی
 سے جانا۔ یہ بکیرہ۔ لے کر
 تیز دوڑنا۔
 مغت الثوب۔ سرخ مٹی یا گندے رنگ
 امغرت الناقۃ۔ بیماری سے
 اونٹنی کے دودھ کا سرخ ہونا۔
 صند۔ (مغرت)
 المغرة والمغرة۔ سرخ مٹی بگرد
 المغرة والمغرة۔ لکھا سرخ رنگ
 الا مغرة۔ گندہ جیسا رنگ والا۔ سفید
 جہ میں سرخی کی جھلک والا۔
 المغرة۔ وہ زمین جس میں سے گند
 نکلے۔
 مغت (ن) مغتاً۔ الشی۔ بیدہ۔
 ہاتھ سے ٹٹلنا۔ ہ۔ بالرمح
 نیزہ مارنا۔
 مغت (س) مغتاً و مغتاً مغتاً
 آنتوں میں مروڑ ہونا۔ صفت
 (مغت) امغصۃ مروڑ پیدا
 کرنا۔
 تمغص۔ بطن۔ پیٹ میں مروڑ ہونا

دروہونا۔
 المغص۔ مہ۔ مروڑ۔ البطن۔ المغص
 عمدہ اونٹ۔ واحد (مغص)
 مغت (ن) مغتاً و مغتاً۔ الشی۔ لبا
 کرنے کے لئے کھینچنا۔
 تحط و امغط۔ الشی۔ دراز لبا ہونا۔
 کھینچنا۔
 امغط۔ کھینچنا۔ دراز ہونا۔
 السیف۔ تلوار سونٹنا۔
 امغط۔ بہت لبا۔
 مغت (ن) مغتاً و مغتاً۔ بالرجل
 پھنکنا۔
 مغت (س) مغتاً عبتاً۔ آنکھ کا خراب
 ہونا۔ الحامل یوگندہ۔ حاملہ کا
 بچہ کو دودھ پلانا۔
 مغت (ن) و مغتاً (س) مغتاً۔
 الدابة۔ سبزی کے ساتھ مٹی کھانے
 سے جانور کے پیٹ میں درد ہونا صفت
 رمغلة و ممغولة (ن) ام الغلة
 امغل القوم۔ الجے جانوروں کا مالک
 ہونا جن کے پیٹ میں مٹی ملی گھاس
 کھانے سے درد ہو گیا ہو۔
 الحامل۔ حاملہ کا بچہ کو دودھ پلانا
 یہ غتہ السلطان۔ بادشاہ سے
 کسی کی جھپٹی کھانا۔
 المغل و المغل۔ حاملہ عورت کا دودھ
 جہ۔ امغال۔
 امغلة۔ فساد۔ دہنی یا بکری جو سال
 میں دودھ نہ دے۔ جہ۔ امغال۔
 امغلة مہ۔ دغا بازی۔ خیانت
 ممغرة۔ المہ۔ گشت کی اچھی طرح نہ چبانا
 الکلام۔ کلام صاف اور واضح نہ کہنا
 الشی۔ چوبھوٹا لانا۔ فی عکبہ
 کمزور دردی کا کام کرنا۔ الکلب
 فی الاناء۔ کتے کا برتن میں منڈوانا۔

کی مٹی دکنسری وغیرہ سمندر میں غوطہ کھانے کی حیرت۔

الْمُقَلَّ - گوگل کا پھل - گوگل۔

الْمُقَلَّة - کنوئیں کی تہہ - پانی کا اندازہ لگانے کی کنوئیں جس سے ناپ ناپ کر سفر میں پانی تقسیم کیا کرتے تھے تاکہ پانی کی تقسیم سب پر برابر ہو جائے اور کسی کو کم زیادہ نہ پہنچے۔

الْمُقَلَّة - آنکھ کا ڈھیلا - آنکھ - ج - مُقَلَّ -

مَقْمَقُ الشَّيْءِ - نرم و آسان کرنا -

الشَّيْءِ - ذلیل کرنا - الْوَلَدُ الْأَمْرُ - سختی سے چوسنا -

الْمُقَامِقُ - حلق کے آخری حصہ سے بولنا

مَقِيَّة (س) مَقْمَرًا - مریخ پکوں والا ہونا - صفت (آ مقمہ)

الْمَقْمَ - بیلارنگ - ہلکا رنگ نیلا -

الْمَقْمَ - دور - بنجر زمین - مریخ پکوں والا - خود رائے اور خود سر آدمی -

حمید نہ جانتا ہو کہ وہ کدھر جاتا ہے مَوْت - مَقْمَرًا ج - مَقْمَرًا

مَقَابِقُ مَقْوَا مَقْوَا مَقِي يَمْنَى مَقِيًّا السَّيْفُ - تلوار کو جلاد دینا یا صیقل کرنا

مَقِي الْقَصِيْلُ أَمَّةٌ - بچہ کا اچھا ماں کا دودھ سختی سے چوسنا -

مَقَا الطَّسْتِ - دھونا -

مَلَقَ (ن) مَكَآ وَ تَمَلَّكَ وَ اَمْتَنَ الْعَظَمُ - بڑی کے گردے کو چوسنا -

مَلَقَ الشَّيْءَ - ہلکا کرنا - عَزَمِيَّة قرض دار سے وصولی میں اصرار کرنا -

اَمْتَنَ وَ تَمَلَّكَ الْقَصِيْلُ مَا قِي حَوْرٍ أَمَّةً - بچن کے سب دودھ کو چوس لینا -

مَلَقَ عَلَى عَيْنَيْهِ - اصرار کرنا -

الْمَكَاكَ وَالْمَكَاكَ - بڑی کا معز یا گودا -

الْمَكُوْصُ - پینے کا پیالہ - صانع کا

ایک پیمانہ پکڑا بننے کی نالی - ج - مَكَارِيْطُ -

مَكْتَنَ (ن) مَكْتَنًا وَ مَكْتَنًا وَ مَكُوْثًا وَ مَكْنِيْنَا وَ مَكْنِيْنَا

بِالْمَكَانِ - ٹھہرنا - فِي الْأَمْرِ جلدی کرنا -

الْمَكْنِيْتُ - ٹھہرنے والا - سنجیدہ و صابر - سَتَ -

مَكْنَنَ (ن) مَكْنَنًا وَ مَكْنُونًا بِالْمَكَانِ اقامت کرنا - صفت (مَكْنَنُ)

نَاثَةً مَكْنَنَةً وَ مَكْنَنًا وَ مَكْنُونًا - بہت دودھ والی اونٹنی -

ج مَكْنُونًا وَ مَكْنُونًا - اَلْمَكْنُونُ بَنَكْسِي مَكْنُون (ن) مَكْنُونًا - الرَّجُلُ وَبِهِ دھوکا دینا

— اَلْمَكْنُونُ مَكْنُونًا - مکر کی سزا دینا — مَكْنُونُ الشَّرَابِ پکڑے کو گیر سے

رنگ - ہ - رنگنا — اَلْمَكْنُونُ سیراب کرنا -

مَكْنُونُ (س) مَكْنُونًا - مریخ ہونا - مَكْنُونًا - دھوکا دینا - فریب دینا

مَكْنُونًا غلہ جمع کرنا - گرانی کی امید میں ناج رد کے رکھنا -

اَمْتَنَ - دھوکا دینا - ہ - اَلْمَكْنُونُ مکر کی سزا دینا -

تَمَاكَرُؤًا - بچن کا بعض سے حیل کرنا اَمْتَنَ وَ اَمْتَنَ - مریخ رنگ سے رنگا جانا

مریخ رنگ ہونا - اَلْمَكْنُونُ دھوکا - فریب - دھوکے و فریب کی سزا - گیر -

اَلْمَكْنُونُ - لڑائی میں حیل و تدبیر ایک بے پھول کا درخت - کھیت کی سیرانی

خوبصورت - موٹی پنڈلی - ج

مَكْنُونًا وَ مَكْنُونًا اَلْمَكْنُونُ - مریخ - دھوکا دینے والا ج

مَكْنُونًا وَ مَكْنُونًا اَلْمَكْنُونُ - بہت کم فریب کرنے والا

مَكْنُونُ (ن) مَكْنُونًا - ٹیکس جمع کرنا -

— فِي الْبَيْعِ - قیمت کم کرنا - ہ ظلم کرنا - مَكْنُونُ - الرَّجُلُ خريد و فروخت

میں نقصان پہنچنا - مَكْنُونُ (ن) مَكْنُونًا - ٹیکس جمع کرنا -

— فِي الْبَيْعِ - قیمت کم کرنا - مَكْنُونًا مَكْنُونًا مَكْنُونًا مَكْنُونًا - مخالفت کرنا -

تَمَاكَسُ الرَّجُلَانِ فِي الْبَيْعِ: خريد و فروخت میں آپس میں جھگڑنا -

اَلْمَكْنُونُ مَكْنُونًا مَكْنُونًا مَكْنُونًا - مَكْنُونُ مَكْنُونًا مَكْنُونًا مَكْنُونًا

اَلْمَكْنُونُ مَكْنُونًا مَكْنُونًا مَكْنُونًا - مَكْنُونُ مَكْنُونًا مَكْنُونًا مَكْنُونًا

صاحب المکس بھی اس کو کہتے ہیں مَكْنُونُ - بڑی کا سارا گدا چوسنا -

چلنے میں لڑھکنا - مَكْنُونُ (ن) مَكْنُونًا - عَزَمِيَّة

رتبہ اور اعتبار والا ہونا - مَكْنُونُ (س) مَكْنُونًا - اَلْمَكْنُونُ وَ مَكْنُونًا

بڑی کا اندھے دینا - اَلْمَكْنُونُ وَ مَكْنُونًا مَكْنُونُ (ن) مَكْنُونًا - ج مَكْنُونُ

مَكْنُونًا وَ اَمْتَنَ - مَكْنُونًا مَكْنُونًا مَكْنُونًا مَكْنُونًا - مَكْنُونًا مَكْنُونًا مَكْنُونًا مَكْنُونًا

دنیاء اختیار دینا - قادر بنانا - اَمْتَنَ اَلْمَكْنُونُ وَ اَمْتَنَ اَلْمَكْنُونُ وَ اَمْتَنَ اَلْمَكْنُونُ

کوئی امر آسان و ممکن ہونا - "فَلَا تُؤْمِنُ لَآ يُؤْمِنُ الْهُوَ" فلاں اٹھنے

پر قدرت نہیں رکھنا - اَمْتَنَ عَزَمِيَّة - مَكْنُونًا مَكْنُونًا مَكْنُونًا مَكْنُونًا

ہونا — اَلْمَكْنُونُ وَبِهِ کسی جگہ مضبوط اور جھے ہوئے قدموں والا ہونا -



اَلْمَلِكُ (د) اِسْتَمَلَ مِنْ اَلْأَمْرِ عَلَيْهِ
پانا۔ کامیاب ہونا۔ اَلْمَلِكُ
مُذِي وَغَيْرُهُ كَيْ اِثْرَے وَاَصْد (مَلِكْتَهُ)
وَمَلِكْتَهُ (ج) مَلِكَاتٍ وَمَلِكَاتٍ
اَلْمَلِكْتَةُ۔ قوت، اشدت

اَلْمَلِكَانِ۔ موضع جگہ۔ درجہ ج اَمَلْتَهُ
وَاَمَلْتَهُ وَجَّحَ اَمَاكُنْ
”هُوَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَكَانٍ“ اس کو علم
میں ایک خاص مرتبہ اور درجہ نصیب ہے
اَلْمَلِكَانَةُ۔ مہم۔ مرتبہ۔ بلندی شان، سنجیدگی
ج مَكَانَاتٍ

اَلْمَلِكِيْنِ۔ مرتبہ والا۔ هُوَ مَلِكِيْنٌ عِنْدَ
اَلْأَمِيرِ۔ وہ امیر کے نزدیک صاحب
مرتبہ ہے۔ ج مَلِكَانَةٍ
اَلْمَلِكِيَّةُ۔ آسٹگی
”اَمْسَحْ عَلَى مَلِكِيَّتِكَ“ سنجیدگی
اور وقار کے ساتھ چلو۔

اَلْمَلِكِيْنِ۔ اصطلاح سخویں وہ کلمہ جو
مبنی نہ ہو
اَلْمَلِكِيْنِ اَلْأَمَلِكِ۔ منصرف اسم
اَلْمَلِكِيْنِ۔ غیر منصرف اسم
عِيْرُ اَلْمَلِكِيْنِ۔ غیر منصرف اسم
مَكَانِيْكُوْهُمُ مَكَانٌ وَمَلِكٌ۔ مزے سے بیٹھ
بجانا۔

مَلِكِيَّتُكَ مَلِكٌ۔ پیدل کام کی زیادتی
سے ہاتھ میں چھالے پڑنا
تَمَلَّكَ تَمَلَّكَ۔ اَلْفَرْسُ۔ گھوڑے کا
پسینہ سے بھینکا۔
اَلْمَلِكُ وَالْمَلِكُوْهُ يَخْرُشُ وَغَيْرُهُ كَالْبَحْثِ
ج اَمَلَا

اَلْمَلِكُوْهُ۔ مَرَبِيْنِ۔ چرتھ
مَل (د) مَلَا۔ الثوب کپڑے پر ننگ
مارنا کپڑے کو کچا کرنا۔ اَلشَّيْءُ
فِي الْيَمْرِ۔ انگاروں پر رکھنا۔
صفت قاعی (مَلَالٌ) صفت مفعولی

رَمَلْتُوْلٌ وَ مَلِيلٌ)۔ السَّهْمُ بِاللَّامِ
تیر کو آگ سے سیدھا کرنا۔ اَللَّحْمُ
وَالْجَبْرِ مَرُوحَتُ بَارُوْیَ کو بھول میں
رکھنا۔ فِی الْمَشْتَى تیر۔ چلنا۔
— عَلِي السَّهْمِ۔ سفردار ہونا۔

مَل (س) مَلَا۔ ملال لاحق ہونا۔ یا
غم یا بیماری سے تڑپنا۔ اَلشَّيْءُ
اَلْطِیْثُ کرنا۔ اَلْمُحْمُومُ۔ بخار دلے
کا بے کلمہ ہونا۔

مَل (س) مَلَا وَ مَلَا لَا وَ مَلَّةٌ وَ
مَلَا لَةً۔ اَلشَّيْءُ مِنْ اَلشَّيْءِ: اَلتَّانَا۔
زیر ہونا۔

مَلَلْتُ تَمَلَّلْتُ لَ: اَلشَّيْءِ۔ اَلْطِیْثُ کرنا
اَمَلْتُ عَلَيَّ السَّهْمِ۔ سفردار ہونا
اَمَلْتُ اَلْأَمْرَ وَ اَمَلْتُ عَلَيَّ اَلْأَمْرَ
کسی امر کا شاق اور باعث ملال دینے پر ہونا
اَمَلْتُ اَلشَّيْءُ بھول میں رکھنا
اَمَلْتُ اَمَلًا لًا وَ اَمَلِيَّتُ اَمَلًا لًا
اَلْكِتَابُ عَلَى اَلْكَاتِبِ۔ لکھوانا
اطلا کرنا۔

تَمَلَّلْتُ غم یا بیماری سے تڑپنا۔
— فِی الْمَشْتَى تیر چلنا۔ مَلَّةٌ
گذا۔ کوئی مذہب اختیار کرنا۔
اَمَلْتُ۔ باہر آنا۔ کھینچنا۔
اِسْتَمَلْتُ۔ اُکٹانا۔ تنگ آنا۔
اَمَلْتُ۔ تھکا ہوا۔ اُکٹا یا ہوا

اَلْمَلَّةُ چنگاری بھول۔ بخار کا پسینہ
تنگ دلی۔ خَبَرُ الْمَلَّةِ۔
بھول کی بچی ہوئی روٹی۔
رَجُلٌ مَلَّةٌ جلد اُکٹانے والا آدمی
اَلْمَلَّةُ۔ مذہب، اعتقاد۔ قوم۔ رَم
خون بہا ج مَلَلْتُ۔
اَلْمَلَّةُ۔ ننگ۔ کچی سلائی۔ طاکا۔

ج: مَلَلْتُ۔
اَلْمَلَلُ وَالْمَلَالُ۔ اُکٹا ہٹ۔ بیقراری

اَلْمَلَالُ۔ غم یا بیماری سے بے کلمہ دینی
بیٹھ کا درد۔ کمان کی پشت پڑنا
کے اندر کی گرمی۔ ہمارا کا پسینہ پھلنا
کے قبضہ کی لکڑی۔

اَلْمَلُولُ وَالْمَلُوْكَتَةُ وَالْمَلَالَةُ وَ
اَلْمَالُ لَوْدَةً۔ (مذکورہ منٹ) اُکٹا یا
ہوا۔ بے قرار۔

اَلْمَلِيلُ وَالْمَلُولُ۔ بھول میں بھولنا
اَلشَّيْءُ۔ اَلْمَلُولُ۔ باعث ملال چیز
اَلْمَلِيلُ۔ کرینی۔

اَلْمَلِيلُ وَالْمَلِيلُ۔ بہت آمدورفت والا
راستہ

اَلْمَلِيَّةُ۔ اندرونی بخار سخت پیاس
مَلَا لَةً (د) مَلَا وَ مَلَا لَةً وَ مَلَا لَةً۔

بھڑنا۔ اَلْأَتَاءُ مَا دُ بِالْأَتَاءِ وَ
مَبْنِ اَلْأَتَاءِ۔ برتن کر رہا بھڑنا۔
صفت مفعولی (مَلَّةٌ لَوْدَةً) مَلَا لَةً
عَلَى اَلْأَمْرِ۔ اس نے اس کی مدد کی۔

تَمَلَّلْتُ اَلْبَدَنَ مَلَا لَةً مِنْذَرَةً
میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا منظر
مجھے بھلا معلوم ہوا مَلَا لَةً عَلَيَّ اَلْأَمْرُ
اس نے اس پر زمین تنگ کر دی۔

مَلُوْ (د) مَلَا وَ مَلَا لَةً۔ مالدار ہونا
مَلُوْ (د) دھلیجہ مَلَا لَةً۔
زکام والا ہونا۔

مَلِي (س) مَلَا وَ مَلَا لَةً بھڑنا۔
صفت (مَلَا لَةً)

مَلَا لَةً تَمَلَّلْتُ۔ خوب بھڑنا اَمَلَا لَةً
زکام لگانا۔ (مَلَا لَةً)

اَمَلَا لَةً فِی الْفَوَیْسِ۔ کمان کو زور سے
کھینچنا۔

تَمَلَّا وَ اِمْتَلَا۔ غَيْضًا۔ غصہ سے بھر
جانا۔ تَمَلَّا لَتِ الْعِزَّةُ عِزَّتِ

کا چادر اوڑھنا۔
مَلَا لَةً مَمَلَا لَةً وَ مَلَا لَةً عَلَى اَلْأَمْرِ

تَمْلَحُ الْبَعِيدُ - مونا ہونا —
الرَّيْلُ - نمک خوشہ میں لینا - نمک کی
تجارت کرنا -

اَمْلَحُ الْكَبَشُ - مینڈھے کا سیاہ دھند
ہونا -

اَمْلَحُ السُّلُ - سُرخ اور زرد کچی
کھجور کا ہونا -

اَمْلَحُ - جھوٹ سچ ملانا -

اَسْمَلَحُ - عمدہ پانا یا سمجھنا

اَلْمَلَحُ - عمدہ عمدہ باتیں -

اَلْمَلَحُ - نمک (مذکر دمؤنث) تصغیر
مَلِيحَةٌ ج مَلَاَحٌ -

اَلْمَلَحُ - چربی - مونا یا خوبصورتی

رِصَاعَت - علم - ٹھکانا

”مِلْحُهُ عَلَى رِكْبَتَيْهِ“ وہ بے وقار

اَلْمَلَحُ وَالْمِلْحَةُ - عمدنا مہ معاہدہ
اَلْمَلَحُ - بھورا رنگ بہت نیلا ہٹ

اَلْمِلْحَةُ - موج سمندر
اَلْمِلْحَةُ - سخت نیلگوں - خوف

ہیبت برکت - مزہ دار بات ج

مَلَحٌ -

اَلْمِلْحَةُ - مکہ مِلَح - ظرافت

اَلْمِلْحَةُ - نشی یا جہاز چلانے والی ہوا

نیزے کا پھل - برقعہ - تھیلہ -

اَلْمِلْحَةُ - خوب صورت ج

مَلَاَحُونُ

اَلْمِلْحَةُ - چہرے کی خوبصورتی - مہربانی

ظرافت

اَلْمِلْحَةُ - جہاز رانی

اَلْمِلْحَةُ - نمک کی کان - نمک فروخت

کرنے کی جگہ

اَلْمِلْحَةُ - اچھا عمدہ کلام جہ

اَمَّا لِيُحْجَ -

اَلْمِلْحَةُ - ملاح - کشتی بان نمک کا سوداگر -

اَمْتَلَحَ مَا فِي الشَّيْءِ - چوسنا -

اَلْمَلَحُ - دودھ پینے والے مینے - بکری

کے چھوٹے بچے -

اَلْمَلِيحُ - دودھ شریک بھائی -

اَلْمَلِيحُ - بنجر - رنگستان آلمہ -

اَلْمَلُوْحُ - ایک جنگلی درخت یا اس کے

پتے - شاخ باجڑ جو نرم کرنے کے لئے

گیلی مٹی میں دبائی جاتی ہے - ج

اَمَّا لِيُحْجَ -

اَلْمَلَاَحُ - کرنی - معمار کا پانی کرنے کا آلہ

مَلَحُ (ن ص) مَلَحًا - اَلطَّعَامُ - کھانے

میں نمک ڈالنا - اَلرَّجُلُ بَغِيْبَتُ كَرَا

اَلطَّارُ - پرندہ کا پھر دھڑانا -

-- اَلْمَا شَيْبَةً - مویشی کو نوئی کھانا

مَلَحَ (ن ن) و مَلَحَ (ك) مَلُوْحَةٌ و

مَلَاَحَةٌ و مَلُوْحًا - اَلْمَاءُ

پانی کا کھاری ہونا - صفت (مَلِيحُ

و مَالِيحٌ) -

مَلَحَ (ك) مَلَاَحَةٌ و مَلُوْحَةٌ

خوبصورت ہونا - صفت (مَلِيحُ

و مَلَاَحٌ و مَلَاَحٌ)

مَلَحَ (س) مَلَحًا - نیلے رنگ کا ہونا

مَلَحَ - اَلشَّيْءُ، نَمِيْسٌ کرنا - اَلطَّعَامُ

کھانے میں نمک زائد کرنا -

اَسْمَكَ و نَحْوَهُ - پھل وغیرہ پر نمک لگانا

- اَلدَّابَّةُ - جانور کے جڑے پر

نمک کی مالش کرنا - اَسْتَكْلِمَ

عمدہ کلام کرنا -

اَمْلَحَ اَلْمَاءُ - میٹھا ہونے کے بعد کھاری

ہونا - اَلطَّعَامُ - کھانے میں نمک

زائد کرنا - اَلْاَيْلُ - اونٹوں کا

کھاری پانی پر آنا - اَلرَّاعِي اَلْاَيْلُ

کھاری پانی پلانا -

- اَلشَّيْءُ نَمِيْكٌ رنگ کا ہونا -

مَلَاَحَةٌ مَلَاَحًا و مَلَاَحَةً - ساتھ کھانا

مد کرنا -

تَمْلَاَ - اَلْمَلَاَحَةُ - ایک دوسرے کی مد کرنا

اَسْتَمْلَاَ فِي رُبَيْبَةٍ - معتبر دولت مند

مقروضوں والا ہونا -

اَلْمِلَّ - وہ مقدار جس سے برتن بھر جائے

ج اَمْلَاءٌ -

اَمَّا نِيَا مِلَّ حَقْفَتِهِ - وہ

بے نکر سوتا ہے -

فَلَانٌ مِلٌّ كَيْسًا سَمٌ - فلاں موٹا ہے

اَلْمَلَاَ - قوم کی جماعت - اشراف قوم

اَلْمَلَاةُ اَلْاَعْطَى - عالم ارواح

اَلْمَلَاةُ - مشورہ - ظن - طبع

اخلاق - ج اَمْلَاءٌ

اَلْمَلَاةُ اَلْمَلَاةُ و اَلْمَلَاةُ زَكَاةُ

اَلْمَلَاةُ - چادر - تہ بند ج

مَلَاةٌ - اَلْمَلَاةُ - بھرنے کا طریقہ

اَلْمَلَانُ - بھرا ہوا - زکام والا -

مَوْنَتٌ مَلَاةٌ و مَلَاةٌ ج

مَلَاةٌ

اَلْمَلِيحُ و اَلْمَلِيحُ - غنی قرض ادا کرنے

کے قابل ج مَلَاةٌ و اَمْلِيَاءٌ و

مَلَاةٌ -

مَلَتَهُ (ن ص) مَلَتًا - ہلانا -

مَلَتُهُ (ن ص) مَلَتًا - جھوٹے وعدوں

سے تسکیں دینا - خوش کرنا - تھوڑا

مارنا -

مَلَتَهُ - اَلشَّيْءُ - بدی سے تھوڑا

مَالَتَهُ - مَلَاةٌ و مَلَاةٌ - مہمانت

کرنا - خوش آمد کرنا -

مَلَتُ اَلْيَلُ و مَلَتُهُ - شام کا اندھیرا

یا دھندلا پن -

اَلْمَلَتَةُ - شام کا اندھیرا

مَلَجَ (ن) و مَلَجَ (س) مَلَجًا اَلضُّيُ

اَمَّا - بچہ کا دودھ پینا - چوستا -

اَمْلَحَهُ - دودھ پلانا -

المَلَّاحُ - ایک نبات - واحد (مَلَّاحَةٌ)
رَجُلٌ مَلَّاحٌ - ظریف خوبصورت آدمی
ج مَلَّاحُونَ

الْمَلَّاحِيَّةُ - جہاز رانی کا پیشہ
المَلَّوْحَةُ - معنیکینی -

المَلِيحُ - نمکین، عمدہ خوبصورت
نمک لگا کر خشک کی ہوئی مچھلی ظریف
و خوش مزاج -

مَوْنَتٌ مَلِيحَةٌ - ج مَلَّاحٌ وَ اَمَلَّاحٌ
الْاَمَلَّاحُ - اسم تفضیل - سفید و سیاہ رنگ
والا - ج مَلَّاحٌ -

الْاَمَلَّاحُ - شبنم -
المَلَّاحَاءُ - سفید و سیاہ رنگ والی
بڑا لشکر - ج مَلَّاحَاتُ
الْمَلَّاحِي وَ الْمَلَّاحِيَّةُ - سفید لمبے انگور
ایک قسم کا انجیر -

الْمَلَّاحِيَّةُ - نمک والا یا نمک کا تاجر
الْمَلَّاحُ - نمک والا یا نمک کا تاجر -
مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - الشیء - ہاتھ سے یا
دانت سے پکڑ کر کھینچنا - الطَّعَامُ -
کھانے کا خراب ہونا - الْفَرْسُ -
گھوڑے کا کلیں کرنا - الرَّجُلُ -
تیز چپن بھاگ جانا - فِي الْبَاطِلِ -
فضول کام میں مشغول ہونا -

مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحَةً - الطَّعَامُ کھانے کا
خراب و بد مزہ ہونا -

مَالَخَهُ مَلَّاحًا وَ مَمَالَخَهُ - آپس
میں کھینچنا، چا پوسی اور خوشامد کرنا -
تَمَلَّحَ - الشیء - خراب ہونا - الشیء
نکالنا -

اِمْتَلَحَ - الشیء - اکھڑنا، کھینچنا -
يَدَا مِنْ الْقَالِقِ عَلَيْهِ - بھینچ لینا
- السَّيْفُ - تلواریں ہدی سے سونٹنا
الْمَلَّاحُ - بہت خوشامد و چا پوسی کریں والا
بہت بھاگنے والا غلام

الْمَلُوحِيَّةُ - ایک قسم کی نباتات -
الْمَلِيحُ - خراب کھانا وغیرہ - بے مزہ

مَمْتَلَحٌ - الْعَقْلُ - پاگل عقل سے محروم
مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - الشیء - کھینچنا -
مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - الْعَصْفُ - شنی کا
ہلنا - نرم ہونا -

مَلَّاحٌ اَلَا دِيحَةٌ - نرم کرنا -
الرَّجُلُ الْعَصْفُ - شنی کا ہلنا - نرم ہونا
الْمَلَّاحُ وَ الْمَلَّاحَاتُ - جوانی نرمی نزاکت
ج اَمَلَّاحٌ -

الْمَلَّاحُ وَ الْاَمَلَّاحُ وَ الْاَمَلَّاحِيَّةُ وَ
الْاَمَلَّاحِيَّةُ وَ الْاَمَلَّاحَاتُ وَ
الْاَمَلَّاحِيَّةُ - نرم و نازک آدمی
یا شنی - مَوْنَتٌ مَلَّاحَةٌ - مَلَّاحٌ
مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - الرَّجُلُ - جھوٹ
ہونا - خَلَا نَا - نیزہ مارنا -
الْفَرْسُ - گھوڑے کا تیز دوڑنا -

رَفٌّ مَلَّاحٌ اَوْ مَلَّاحَةٌ - الرَّجُلُ صرف
اچھی باتوں سے خوش کرنا اور کر کے نہ
دکھانا -

مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - الْاَمَلَّاحُ - اندھیرا
گھپ ہونا - الرَّجُلُ - منافق
طرز والا ہونا -

الْاَمَلَّاحُ وَ الْمَلَّاحَاتُ وَ الْمَلَّاحَاتُ
وَ الْمَلَّاحَاتُ وَ الْمَلَّاحَاتُ - منافق
جھوٹا آدمی -

مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - اچھے رہنا - بالشیء
لے جانا -

مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - جھڑانا
مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - جاتا رہنا -

اَمَلَّاحٌ وَ تَمَلَّاحٌ وَ اَمَلَّاحَةٌ -
نکال لینا - اچک لینا - لے جانا -

تَمَلَّاحٌ مَلَّاحٌ - چھلکا رہا پانا -
اَمَلَّاحٌ وَ اَمَلَّاحٌ - مَلَّاحٌ - پچھلنا غلامی پانا

اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - پیچھے رہنا -
اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - طاقت و ریاضت پھول والا
اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - بہت اچکنے والا - بھیرٹیا
مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - مَلَّاحٌ - الشیء - جڑے
اکھیر کر نکالنا - اَلَا دِيحَةٌ - تیز ہلنا
- الْاَمَلَّاحُ - اندھیرا گھپ ہونا -
- الرَّجُلُ - چا پوسی کرنا خوشامد کرنا
مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا -
وَ مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - طام اور چکنا ہونا -
ہموار ہونا صنت (اَمَلَّاحٌ)
مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - الشیء - طام اور چکنا کرتا -
اَلَا دِيحَةٌ - ہموار کرنا - اَلَا دِيحَةٌ - اَلَا دِيحَةٌ -
چھڑانا -

اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا -
ہونا - اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - بکری
کی اون کا جھڑ جانا -

تَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - طام ہونا - چکنا ہونا -

مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ - نکلنا - مِنْ
الْبَشَرِ - نشہ سے ہوش میں آنا -
رَفٌّ مَلَّاحٌ وَ اَمَلَّاحٌ - مِنْ اَلَا دِيحَةٍ
نکل جانا - پچھ جانا - خلاصی پانا -

اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - اچک لینا -

اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا -
اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - چکنا ہونا - مِنْ اَلَا دِيحَةٍ
ورائی پانا -


اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - ہموار کرنا - ج مَلَّاحٌ
اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا -

مَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - بہت اندھیرا چومنا
وغشاکے درمیان ہوتا ہے -

اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - بہت تیز رفتار اونٹنی
کبا عہد اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - اس کو بغیر

شرط کے فروخت کر دیا -
اَلَا دِيحَةٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - چکنا - مَوْنَتٌ مَلَّاحَةٌ
سَنَةٌ مَلَّاحَةٌ - خشک سال جہ -


اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا -
اَمَلَّاحٌ رَفٌّ مَلَّاحًا - پچھلنا غلامی پانا



الف لیلٰی جیسے لفظ کتاب کا الف
المَلِیْسَاءُ نصف النہار مغرب اور
عشا کے درمیان کا وقت۔
الْمَلِیْسُ وَالْمَلِیْسِیَّةُ: رنگین
میدان جہاں اُمّالِیْسُ وَاُمّالِیْسُ
اُمّالِیْسَتُمْ وَاُمّالِیْسَتُہُ: زمین برابر
کرنے کی کڑھی سراون۔ پھیلنا۔
مَلَسَتْ (ن) مَلَسًا: الشیءُ: ہاتھ سے
ٹٹول کر ڈھونڈنا۔
اَلْمَالُوْشُ: نباتات کی جڑوں کو کھانے
والا کبوتر اَجْمَالِیْسُ
مَلِیْسٌ (س) مَدَصًا الشیءُ مِنْ یَدِہِ
چکن ہٹ کی وجہ سے ہاتھ سے پھسلنا
— الرَّجُلُ: بھاگ جانا۔
مَلَصَ (ن) مَلَصًا: پانچنا کرنا۔
اَمْلَصَتِ الْعَاوِلُ: وہ عورت کا
حمل گرانا صفت (مَمْلِیْسٌ) جہاں
مَمَالِیْسُ: اَمْلَصَ الشیءُ: پھیلانا
تَمَلَصَ وَاِیْمَلَصَ وَاَمْلَصَ مِنْہُ
بچ نکلنا۔ چھوٹ جانا۔ خلاصی پاتا
— الشیءُ مِنْ یَدِیْ: ہاتھ سے
پھسل جانا۔
اَلْمَلَصُ: ننگا۔
اَلْمَلِیْسُ وَالْمَلِیْسُ: پھسلنے والا
چیز جس کو ہاتھ نہ پکڑ سکے۔
اَلْمَلِیْسُ: اسقاط شدہ بچہ
اَلْمَلَصُ: زمر و تر
اَمْلَصَ الرَّاسُ: گنجا۔
اَلْمَلَا صُ: وہ عورت جس کو اسقاط
کی عادت ہو۔
مَلَطَ (ن) مَلَطًا: اَلْعَاظُ: دیوار
کو مٹی سے لپینا۔ الشَّعْرُ: بال ہونا
مَلَطَتْ وَاَمْلَطَتْ الْحَامِلُ: جھینٹنا
اُدھور اچھڑ کرانا — الرَّجُلُ:
محتاج ہونا۔

مَلَطَ (ن) وَاَمْلَطَ (ن) مَلَطًا
اَلْعَاظُ: مخلوط النسل ہونا۔
مَلَطَ (س) مَلَطًا وَاَمْلَطَ: بے بال کے
جسم والا ہونا۔
مَلَطَ الْحَاظُ: دیوار کو مٹی سے لپینا۔
— الشَّعْرُ: باہم باری باری سے ایک
مصرع پڑھنا۔
مَا لَطَ مَلَاظَةً: باہم ملنا۔ ایک شعر
کا ایک مصرع پڑھنا اور دوسرے کا
دوسرا مصرع مل کر شعر پورا کرنا۔
تَمَلَطَ: الشیءُ: ملائم ہونا۔ تیر کا بے پر ہونا
اَمْتَلَطَ الشیءُ: چیز کو ایک لینا چھین لینا
اَلْمِلَطُ: بے اعتماد و شریر۔ گناہ منہ سے اَلَا
جہاں اَمْلَاظ وَاَمْلُوْظ
اَلْمِلَاظُ پانی کا گارا جہاں مِلَطُ
اَلْمِلَطُ جہاں مِلَطُ وَاَلْمِلِیْطُ:
بے بال کے جسم والا۔
سَهْمٌ اَمْلَطٌ وَاَمْلِیْطٌ بے پر کا تیر
اَلْمِلِیْطُ مِنَ التَّوْقِ سچ گرانے
کی عادی اونٹنی۔
مَلَعَتْ (ن) مَلَعًا وَاِمْتَلَعَتْ الشَّاةُ
کبری کی کھال اُٹارنا۔
مَلَعَتْ اَلْفَصِیْلُ اُمّہ: بچہ کا دودھ
پینا۔
اَمْتَلَعَتْ الشیءُ: ایک لینا چھین لینا
مَلَعَتْ وَاَمْلَعَتْ وَاَمْتَلَعَتْ
اُمْتَلَعَتْ: الناقۃ اونٹنی کا
تیز دوڑنا۔
اَلْمَلَعُ مہ کہتے ہیں "ہُمْ عَلَیْہِ مَلَعٌ"
وَاحِدٌ: "وہ سب اس کے خلاف
متفق ہیں۔
اَلْمَلِیْعُ جہاں مَلَعٌ وَاَلْمَلِیْعُ تیز اونٹنی
یا گھوڑا۔
اَلْمَلِیْعُ: لمبا۔ ادھر ادھر پینے والا
اَلْمَلَاغُ وَاَلْمَلِیْعُ: بچہ۔ بیابان۔

مَا لَعَّ سَمَالَعَةً: بارگلام رنشا لہر گفتگو
سے مذاق کرنا۔
تَمَلَّعَ فِي کَلَامِہِ: بیوقوفی ظاہر کرنا
تَمَلَّعَ بِہِ: تمسخر کرنا۔
اَلْمَلَّعُ جہاں اَمْلَاغُ وَاَلْمَالَعُ جہاں
مَلَاغُ وَاَلْمَلَّعُ: احمق فحش
کلامی کرنے والا۔
اَلْمَلُوْعَةُ: بے وقوفی فحش کلامی
مَلِیْقَہُ (س) مَلَقًا: مکتبہ لکھنا وَاَمْلَقَہُ
چاپ پوس کرنا۔ خوش آمد کرنا۔
مَلَقَ اَلْحَاتِمُ مِتَّ اَلْاَصْبَحُ:
انگوٹھی انگلی میں ڈھیل ہو گئی۔
مَلَقَ (ن) مَلَقًا الشیءُ: مٹانا۔ نرم کرنا
— الثوبُ: دھونا۔ اَلْبَعْضُ:
لامٹھی سے مارنا۔ مَلَقَ اَلْوُكْدُ:
اُمّہ: بچہ کا دودھ پینا۔ اَلرَّجُلُ:
تیز چلنا۔
مَلَقَ اَلْاَرْضُ اَوَّالِیْطُ: مہوار کرنا
— اَلْبَعْضُ: لامٹھی سے مارنا۔
اَمْلَقَ: مفلس ہونا۔ الثوبُ: دھونا
— اَلدَّهْرُ: زمانے کا مال کو ہاتھ
سے نکال دینا۔ کنگال کر دینا۔
تَمَلَّقَ تَمَلَّقًا وَاَمْلَقَ: اَلرَّجُلُ:
والرجل۔ چاپ پوس کرنا۔
اُمْلَقَ وَاَمْلَقَ: نرم اور چکنا ہونا
— مہ: ہاتھ سے نکل جانا۔ بچہ کر
نکل جانا۔
اُمْتَلَقَ الشیءُ: نکلنا۔
اَسْتَمْلَقَ: بچہ کا مال کا دودھ پینا
اَلْمَلَقُ مہ: دوستی۔ بڑی مہربانی و عدا
مہوار زمین تیز رفتاری
اَلْمَلَقُ وَاَلْمَلَقُ: بڑا خوشامدی۔
چاپ پوس۔
اَلْمَلَقُ: رکورد۔
اَلْمَلِیْقُ: تیز رفتار۔



الْمُلْكَةُ - چکن پتھر۔
الْمَالِقَةُ الْمِنْقُ وَالْمِنْقَةُ بَيْنَا
زین ہمارے کرنے کا آلہ۔
الْمَالِقُ - پانی کرنے کی کرنی
الْمُسْلَقُ - سخت عزیز۔ بہت چالپور
اور غر شامی۔

مَلَكٌ (مَنْ) مَلَكًا وَمَلَكًا وَمَلَكًا
مَمْلُوكًا - الشَّيْءُ مَالِكٌ هُوَ -
عَلَى الْقَوْمِ - غالب ہونا۔ غلبہ فلان
أَمْرُهُ غَالِبٌ أَمْرًا - لَفْظُهُ - اپنے
ادب پر قابو رکھنا۔ الْمَرْأَةُ عَوْرَتُ
سے نکاح کرنا۔ مَلَكًا آئے کو
اچھی طرح گوندھنا۔

مَلَكٌ الشَّيْءُ مَالِكٌ بَنَانًا
مَلَكٌ الْقَوْمَ قَاتِلًا -
اپنا بادشاہ بنانا۔ اِمْرَأَةً بَغِي
کا کسی عورت سے نکاح کرنا۔
مَلَكٌ فَلَانًا اِمْرَأَةً كَيْسِي كَوَسْ
حال پر چھوڑنا۔ مَلَكْتُ الْمَرْأَةَ
اُمِّي هَا - طلاق کا اختیار کر دینا
- مَتَّكًا اَلْعَجِيْنُ آئے کو
اچھی طرح گوندھنا۔

اُمْلُكَةُ الشَّيْءِ - مالک بنانا۔
اُمْلَكْتُ الْقَوْمَ فَلَانًا عَلَيْهِمْ
اپنا بادشاہ بنالینا۔ فَلَانًا اِمْرَأَةً
کسی کے حال پر چھوڑنا۔
اَلْمَرْأَةُ - نکاح کرنا۔
تَمَلَّكْتُ وَ اُمْتَلَكْتُ الشَّيْءَ اَمَّا هُوَ
بادشاہ بننا۔

تَمَلَّكْتُ عَنْ كَذَا - اپنے آپ کو روک
رکھنا۔ مَا تَمَلَّكْتُ اَنْ اَوْعِنَ
اَنْ وہ اپنے آپ کو روک نہ سکا کہ
اَلْمَلِكُ - بادشاہ جو مُلُوكٌ و
اُمْلَاكٌ۔

اَلْمَلِكُ - ملکیت جو۔ اُمْلَاكٌ وَمُلُوكٌ

بادشاہی قبضہ مُلْكُ الدَّ اَتِيَّة
چارپائی کی ٹانگیں۔ واحد اُمْلَاكٌ۔
کہتے ہیں "هَذَا مَلِكٌ وَ يَمِينِي"
میں اس کا مالک ہوں اور یہ میرے
تصرف میں ہے۔ "طَالَ مُلْكُهُ"
اس کی غلامی طویل ہے۔ مُلْكُ الطَّرِيقِ
راستہ کا بیچ (راستہ بائیں میم پر
برسر حرکات جائز ہیں)۔

اَلْمَلِكُ - فرشتہ۔ ملکیت۔
اَلْمَلَاكُ - فرشتہ۔ جو
مَلَاكِيكًا وَمَلَاكِيكًا - اَلْمَلَاكُ
اَقْدَارُ - مَلَاكُ الْاَقْدَارِ - سہارا
سرمایہ۔ بقا۔

اَلْمَلَاكُ مِثْلُ - مَلَاكُ الْاَقْدَارِ -
سرمایہ، سہارا۔ بقا۔
اَلْمَلِكُ - اِسْتَقَالِي - بادشاہ۔ قوت
د اَقْدَارُ کا مالک جو۔

مُلُوكٌ و اُمْلَاكٌ
اَلْمَلِكِي - ملک کی طرف نسبت۔ مَوْت
مَلِكِيَّةٌ
اَلْمَلِكَةُ وَ اَلْمُلْكَةُ - ملکیت۔
اَلْمَلِكَةُ - ملکیت۔

هُوَ مُلْكَةُ يَمِينِي مِثْلُ اس کا مالک
ہوں۔
اَلْمَلِكَةُ - قابلیت۔ عادت۔ مہارت
ملک
اَلْمَالِكُ - فا۔ بادشاہ جو مُلْكٌ و
مُلَاكٌ

اَبُو مَالِكٍ بھوک یا بڑھاپا
مَالِكُ الْحَزِينِ - گھلا۔
اَلْمَلِكُوتُ - بادشاہی۔ سلطنت
اَلْمَلِكُوتُ الْمِلْحَامِي - آسمان
میں قدسیوں کی جگہ۔
اَلْمُلْكُوتُ وَ اَلْمُلْكَةُ - شاہی
شان و شوکت حکومت کے زیر نگین

اَلْمُلْكُوتُ - رات دن۔ واحد (مَلَاکُ)

ملک۔ بادشاہی جو۔ مَمْلَاكٌ
اَلْمَلِكُ - بادشاہ جو مُلْكٌ و مَلِكٌ
اَلْمَلِكُ - شہد کی مکھڑوں کی مکہ جو
مُلُوكٌ - اَلْمَلِكَةُ - صحیفہ
اَلْمُلُوكُ - مفقہ۔ غلام جو مَمْلَاكِيَّةٌ
مَمْلُوكٌ - جدی کرتا
مَمْلُوكَةُ الْمَرْئِي - بیماری نے اس
کو بے قرار کر دیا۔

تَمَلَّكْتُ - بیماری یا غم سے بستر پر گزار
ہونا۔ کروٹیں بدلتا۔ اَلْمَلِكُوتُ
کبھی ایک پلو پر ٹیک لگانا اور کبھی دوسری
اَلْمَلِكُوتُ - مص۔ ہاتھی کی سونڈ
اَلْمُلُوكُ - سرمہ لگانے کی سلاخی۔
ناک کا ٹھنڈا

اَلْمُلْكُوتُ - تیز رفتار اونٹنی
اَلْمَلِكُوتُ - مالچوٹیا۔
مَلَاكِيَّةٌ مَلُوكًا تَمَلَّكْتُ دَوْرًا -
مَلَاكَةً - اَلْمَلَاكَةُ - عمرو راڈ کرنا۔
دیر تک فائدہ اٹھانے دینا۔
مَلِكِي وَ تَمَلَّكْتُ - عمرو راڈ ہونا
اور فائدہ اٹھانا۔

اَمْلَى اِمْلَاءً - اَلْمَلَاكَةُ عَمْرًا -
عمرو راڈ کرنا اور دیر تک فائدہ اٹھانے
دینا۔ اَلْبَعِيْرُ الْبَعِيْرُ - اونٹ
کے پاؤں کے بندھن کو ڈھیل کرنا۔
- اَلْمَلَاكَةُ وَ اَلْمَلِكَةُ - مہلت دینا
- عَلَيْهِ اَلْبَكَاةُ - کھڑانا۔
لَمَّا فِي خَيْتِهِ گراہی کے زمانے کو
دراڑ کرنا۔ عَلَيْهِ الْمَرْئِي -
ہونا۔

اَسْتَمْلِكُتُكَ - اَلْمَلَاكَةُ - لکھوانے کی
درخواست کرنا۔

اَلْمَلَاكَةُ - صوا۔ کھلا وسیع میدان۔ گرم
راکھ۔ زمانہ دراز۔ جو اَمْلَاكٌ
اَلْمُلُوكُوتُ - رات دن۔ واحد (مَلَاکُ)



الْمَلَاوَةُ وَالْمَلُوءَةُ - بتلیث الیم - عرصہ
السلوی - زندگی کی مدت -

الْمَلَاءُ مَعَهُ - ڈھیل دنیا بتا کر کرنا -
جو کچھ کھوایا جائے - ج :

الْمَالِ وَالْمَالِيَةِ -

الْمَلَاةُ - سراب والا - صحرا ج ملا
الکلی - لمبا عرصہ

الْمَنْظَرُ تَمَّ مَلَبًا - میں نے اس کا انتظار
در از مدت تک کیا -

الْمَالِي - املا کئے ہوئے اقوال و
ملخصات -

الْمَلُيُونَ - فِي الْعُدَدِ - دس لاکھ -
ج ملا یین -

مِمْ - يَه مِنْ وَمَا اسْتَفْهَمَ سِ
مرکب ہے -

مِنْ - حروف جارہ میں سے ہے اور
مندرجہ ذیل معانی میں سے ہے -

(۱) اَبْدَارُ لَغَاتِهِ - جیسے مَرَضٌ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ - وہ جمعہ کے دن سے بیمار ہوا

(۲) مَعْجَنٍ تَبْعِيضٍ جِيسَ مِنْ النَّاسِ مَنْ
قَالَ - لوگوں میں سے بعض نے کہا -

(۳) برائے تعبیل - جیسے مِمَّا خَطِئْنَا بِهِمْ
أَعْنِي قَوْلًا - بوجہ اپنے قصوروں کے
عزق کئے گئے -

(۴) بدل کے لئے جیسے اَنْتُمْ مَنُونَ بِالْخِيَرَةِ
التَّيَّامِ مِنَ الْآخِرَةِ - کیا آخرت کے

بدلے تم دنیاوی زندگی پر خوش ہوتے ہو
(۵) مترادف بار جیسے يَنْظُرُونَ مِنْ
طَرَفٍ خَفِيٍّ - وہ پرشیدہ نظر کے

ساتھ دیکھتے ہیں -

(۶) معنی فصل جیسے وَاللَّهُ يَجْعَلُ الْمُفْسِدِ
مِنْ الْمُصْلِحِ - اللہ تعالیٰ مفسد اور

مصلح کے درمیان تیر کر تا ہے -

(۷) زائد سببے مَا جَاءَ فِي مِنْ رَجُلٍ
میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا -

هَلْ ضَوَبَتْ مِنْ أَحَدٍ - کیا تو نے
کسی کو مارا -

مَا فِي الدَّارِ مِنْ أَخِي كَهْمِي كَوْنِي
نہیں -

مَنْ رَوَاهُ مَجْ مَوْث - مذکر کون جو کوئی
"مَنْ دَبَّكَ" تیرا خدا کون ہے -

مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا يُجْزِ بِهِ جَوْنِي
کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا

مَنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خدا پر ایمان

نہیں رکھتے - مَرَرْتُ بِمَنْ مُعْجِبٍ
لَكَ - میں ایسے کے پاس سے گزرا جو

تجھے پسند ہے -
مَنْ (ن) مَنْ مَاتَ وَأَمَّنْ إِمْنَانًا

عَلَيْهِ بَهَا صَنْعَ - احسان جانا -
وَأَمَّنْ عَلَيْهِ بَكْدًا - بھلائی کرنا

مَنْ (ن) مَنْ وَمَنْ يَنْتَبِئُ عَلَيْهِ بَكْدًا -
بھلائی کرنا - انعام کرنا -

مَنْ (ن) مَنْ وَأَمَّنْ وَتَمَنَّ - ارجل
تھکانا یا کمزور کرنا - مَنْ الْجَبَلِ -

رسی کاٹنا مَنْ الشَّيْءِ - کمزور کرنا یا ہونا
- النَّاقَةُ - سفر سے اونٹنی کو لا کر کرنا

تَمَنَّ فُلَانٌ فُلَانًا وَتَمَنَّ
عَلَيْهِ - احسان جتا کر تکلیف پہنچانا -

مَنْ تَمَنَّبْنَا - النَّاقَةُ - سفر سے
اونٹنی کو لا کر کرنا -

مَا قَدْ مَمَّا تَمَّا - کسی کی حاجت روائی
میں آنا جانا -

اَسْتَمَنَّا - احسان طلب کرنا -
الْمَنْ مَعَهُ - احسان - انعام - ایک قسم کا

بیٹھا گوند - وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ
نے اپنی قدرت کاملہ سے نبی اسرائیل کے

لئے غذا بنا کر اُتارا تھا -
دور طل کا پیمانہ یا وزن ج اَمْنَانُ

الْمَشْتَرُ - طاقت - کمزوری (مضد) ج مَشَقَّ

الْمَنْعَةُ مَعَهُ - احسان الیمنۃ تَمَنَّا
الْمَنْعَةُ - احسان کو دھار دینا ہے

ج - مَنَعٌ -

الْمَنْعَةُ - کمزوری - مادہ سی -

الْمَنْعُونَ - موت (مؤنٹ کبھی مذکر بھی) زمانہ
رَبِّ الْمَنْعُونَ - حوادث و تکالیف زمانہ

الْمَنْعُونَ وَالْمَنْعُونَ - بہت احسان جتنے
والا - مؤنٹ - مَنَعٌ وَمَنْعَةٌ -

کمزوری - الَمْنَانُ - بہت احسان کرنا والا
اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے ہے

بہت احسان جتانے والا - مؤنٹ
مَدَانَةٌ -

الْمَنْعُونَ - کمزور - قوی - (مضد) خفیف یا
بلکا ہمار - ج مَنَعٌ وَامْنَةٌ

الْمَنْعُونَ مضاعف کما ہوا - کمزور - قوی
(مضد) قابل حصول -

مَنْ (ن) مَنْ - اَلْجِلْدُ - چمڑا رنگنا -
- فُلَانًا - کام پر موافقت کرنا -

الْمَنْعَةُ - وہ چمڑا جو پہلی بار رنگ میں رنگا
جائے - رنگنے کی جگہ -

الْمَنْعَةُ - کالی زمین
الْمَنْعَةُ وَالْمَنْعَةُ - رطابوں

میں قلعہ کی دیواروں پر پتھر وغیرہ چھینکنے
کی مشین - ج مَجَانِي مَجَانِي

وَمَنْحِيكَاتٌ -
مَنْحَةُ (ن) مَنْحًا - الشَّيْءُ - دینا


عطا کرنا - ه النَّاقَةُ وَكُلُّ ذَاتِ
لَبَنٍ - دودھ والا جانور کسی کو فائدہ

اٹھانے کے لئے دینا - صفت مغولی
(الْمَنْحَةُ وَالْمَنْحَةُ) ج مَنْحٌ

وَمَنْحَةٌ
مَا نَحَتْ مِثْلًا وَمِمَّا نَحَتْ - لگانا

علیہ دینا - آکھ کا لگانا - آسوا ہانا
ایک اونٹنی کا جاڑے میں دودھ اس وقت

دینا جب کہ اور اونٹنوں کا دودھ خشک



ہو گیا ہو
اَمَنْحَتِ النَّاقَةَ۔ اونٹنی کا چھتے کے
قرب پہنچنا۔ صفت (مَنْحَج)
اَمْتَنَحَ۔ (الرَّحْلُ) بخشش لینا۔

تَمَنَحَ الْمَالَ۔ دوسرے کھلانا۔
اِسْتَمَنَحَ۔ بخشش طلب کرنا المَنْحَةُ
عظیہ۔ بخشش جو مَنَحَ۔ المَنَاحُ
بہت دینے والا۔

الْمَنْوُحُ۔ وہ اونٹنی جو جائے میں دودھ
اس وقت تک دے کہ دوسری اونٹنیں
کا دودھ خشک ہو گیا ہو۔

الْمَنْبِیْحُ۔ جو نے کا تیسرا تیز جس کا کوئی حصہ
نہیں ہوتا۔

الْمَسَاخِجُ۔ سردیوں میں دودھ دینے والی
اونٹنی۔ نہ بند ہونے والی بارش۔

مُنْدٌ وَ مُنْدٌ۔ ان حروف کی تین حالتیں ہیں
(الف) حروف جا۔ ہوتے ہیں اور ماضی

میں مین کے معنی دیتے ہیں جیسے مَا
رَأَيْتُهُ مُنْدٌ یُؤْمِ الْاِخْدِ اس کو

میں نے تو اس سے نہیں دیکھا۔ زمانہ
حال میں فی کے معنی میں استعمال ہوتے

ہیں جیسے مَا رَأَيْتُهُ مُنْدٌ اَوْ مُنْدٌ
شہمی ناھذا میں نے اس کو تمام

مہینہ نہیں دیکھا۔ اگر معنی معدود ہو
تو بمعنی مین و الحی کے ہوں گے جیسے

مَا رَأَيْتُهُ مَذْلُوثٌ اِیَّاہِ۔
میں نے تین دن تک اس کو نہیں دیکھا

(ج) ان دونوں کے بعد اسم مرفوع ہوتا ہے
جو محذوف کا فاعل ہوتا ہے اور مُنْدٌ و

مُنْدٌ ظرف واقع ہر جملہ کی طرف مضاف
ہوتے ہیں جیسے مَا رَأَيْتُهُ مُنْدٌ یَوْمَانِ

(مُنْدٌ کا تین یومان)

(ج) جب ان کے بعد جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہو
تو یہ ظرف ہوتے ہیں جیسے مَا زِلْتُ

الْبَعِی الْمَالَ مُنْدًا اِیَّاہِ۔ جب

سے میں جوان ہوا ہوں مال تلاش کرتا ہوں
مَنْحَ (ف) مَنَعًا وَمَنْعًا۔ الشیء وَمِنْہُ

وَعَنْہُ محروم کرنا۔ روک دینا۔ ہ
القاضی عن المیزان۔ قاضی کا

میراث سے روک دینا۔ ہ عَنِ
الدَّعْوَى باز رکھنا مَنَعَ جَارُہُ

حمایت کرنا۔ بچانا۔
مَنْعَ (د) مَنَعًا وَمَنَاعًا۔ قوی ہونا۔

مضبوط ہونا۔ الحصن مَنَعًا۔ قلعہ کا مشکل
الوصول ہونا۔ الشیء۔ بلند مرتبہ و

دشوار ہونا۔ صفت (مَنْعُ)
مَا نَعَّہ۔ حمایت کرنا۔ ہ الشیء تھکوا

کرنا۔ روکنا۔
تَمَنَعَ وَاُمْتَنَعَ عَنِ الشیء۔ روکنا

اُمْتَنَعَ الشیء۔ ناممکن الوصول ہونا
تَمَنَعَ وَاُمْتَنَعَ یَقْوِمُہ۔ قوم کی

حفاظت میں آنا۔ قوت پکڑنا۔
تَمَانَعًا۔ ایک دوسرے کو روکنا۔ ایک

دوسرے کی حمایت کرنا۔
الْمَنْعُ۔ مصر۔ یکدہ اج۔ مُنَوَّع

الْمَنْعَةُ۔ عزت۔ قوت۔ ج
مَنْعَات۔ کہتے ہیں "یَلِہِہم

مَنْعَات" ان کے مضبوط قلعے ہیں جو
دشمن کے لئے ناقابل فتح ہیں۔

الْمَنْعَةُ وَالْمَنْعَةُ۔ قوت۔ شرکت
الْمَنْعَةُ۔ مصر۔ فی الطَّبْ جہم کی

وہ حاصل کردہ قوت جو اس کو امراض
سے محفوظ رکھے۔

الْمَانِعُ۔ ج مَا یَعُوْنُ وَمَنْعَةُ
فَا۔ کبھی سبیل جہ موانع روکنے

والا۔ حفاظت کرنے والا۔
مَنَاعُ۔ روک دے۔

الْمَنْوُوعُ وَالْمَنْعَاعُ۔ بہت زیادہ منع
کرنے والا۔ المَنَاعُ۔ سبیل۔

الْمَنْعُی۔ اسم ہے بمعنی امتناع

الْمَنْعِیُّ۔ وہ مضبوط قوی جس پر کوئی
قابو نہ پا سکے۔ مَوْنٌ مَنِیْعَةٌ

الْمَنْعِیُّ۔ ناممکن۔ ناقابل حصول۔
مَا یَجُوزُ مَنَوًا۔ الرجل بکذا۔ ازنانا

صفت۔ (مَنْعًا اِسْبَدَا)
الْمَنَا۔ پیاتہ یا وزن برابر درمل کے

مثنیٰ مَنَوَانٌ وَمَنْیَانٌ ج اَمْنٌ
وَأَمْنٌ وَمَنْیٌ۔ کہتے ہیں "داری

مَنَادَارٌ" میرا گھر اس کے گھر کے
سامنے ہے۔

مَنَاہُ۔ ایک بت کا نام جو مکہ معظمہ و مدینہ منورہ
کے درمیان بذیل اور قبیلہ خزاعہ

کا تھا۔
الْمَنْوُوعَةُ۔ خواہش، چاہی ہوئی چیز۔

مَنْیٌ یَمْنِیُّ مَنَیًا۔ اللہ الخیر
یَقْدِرُ۔ مقدر کرنا۔

مَنَاہُ۔ آزمانا۔
مَنَاہُ اللہ بکذا۔ اللہ تعالیٰ

نے اس کو فلاں چیز میں مبتلا کیا۔
مَنْیٌ بکذا۔ توفیق دیا جانا۔

بکذا۔ امتحان لیا جانا۔ آزما یا
جانا۔

مَنْیٌ تَمْنِیَّةٌ۔ الرجل الشیء بالشیء
آرزو دلانا۔ رغبت دلانا۔

مَا فِی مَنَاہُ۔ الرجل: مدارات کرنا
مدت دینا۔ انتظار کرنا۔ بدلہ دینا

الْمَنْفِیْقُ۔ ساتھی کے ساتھ
باری باری سے سوار ہونا۔

أَمْنِیُّ اِمْنَاءُ الدِّمَاءِ۔ خون بہانا۔
الحاجج۔ حاجیوں کا معنی میں آنا

یا اِزْنَا۔
اِمْنِیُّ اِمْنَاءُ۔ الشیء بھول بات

کا گھڑنا۔ الحاجج۔ حاجیوں کا
منامیں آنا یا نازل ہونا۔

قَمْنِیُّ۔ الشیء۔ اسلحہ کرنا۔



— اکتاب - پڑھنا

— الرجل - جھوٹ ہونا۔

الحديث - جھوٹی بات گھڑنا

المنية - جہ مکیا والی موت

المنی - قصد، تقدیر الہی

المنية والمنية - جہ مکیا

والا منية - جہ امان و

امانی - خواہش - آرزو مطلوب

الامنية - جھوٹ -

المتنيتات - تمنائیں مرغبات

من - اسم فعل مبني على الشكون -

وک جانا -

مكة (ن) مہکا - الابل - اونٹ کے

ساتھ نرمی برتنا -

(- مہکا) الشی - نرم ہونا -

المہکا - نرمی - طراوت - تازگی -

حسن بخیرورت - خوبصورتی -

(- والمہکا) سیر وغیرہ کا ساتھی -

امید -

المہتر والمہتر - حاکم - امیر

مہجہ (ن) مہجہ - بیماری کے بعد چہرہ

پر رونق آنا - مال کا دودھ پلانا

امٹہجہ - الرجل - خون کھینچ لیا جانا

المہجہ - فاء - خالص دودھ، تیل -

دودھ یا چربی

المہجہ - خون یا دل کا خون -

روح - زندگی - اچھا و خالص حصہ

جہ مہجہ و مہجات -

الامہجہ والامہجہ -

الامہجہ - پانی کی آمیزش سے

پاک خالص دودھ -

مہجہ البطن - ڈھیلے پیٹ والا

مہد (ن) مہدا - الفرائش -

فرش بچانا -

— لنفیسہ - کمانا - کام کرنا -

مہد - الفرائش - بستر بچانا -

— الامرو - درست و سہوار کرنا

— الامرو - عذر پیش کرنا -

— بفلان عذره - عذر قبول کرنا

— لنفیسہ مخیرا - اپنے لئے بھلائی

مہیا کرنا -

تمہد - الفرائش - بستر بچانا -

— له الامرہ - کام کا آسان ہونا -

— الرجل - قادر ہونا -

امتحدا - الشی - بچنا - الرجل - کمالی

کرنا - کام کرنا -

استمہد - فرائش - فرش بچانا -

الکهد - گوارہ - پست زمین

جہ مہود -

المہد - جہ مہدہ و امہاد -

والمہدہ - جہ مہدہ - نرم و

پست و سہوار زمین -

المہاد - بستر پست زمین - جہ مہد

و مہد و امہدہ

المہید - خالص کھن -

المہد - مفع - درمیانی - پانی نرگم

نہ سرد -

مہد (ن) مہدہ و مہودہ و امہاد

و مہارہ - الشی و فیہ و بہ - ماہر

ہونا - تجربہ کار - یا واقف کار ہونا -

صفت (ماہر)

مہد (ن) مہدہ و امہدہ -

النساء - عورت کو مرد دینا - یا مر

مقرر کرنا - و امہدہ ہا مر کے

عوض کسی سے نکاح کر دینا صفت مفعولی

(مہدہ) - امہدات النفس

گھڑی کا بچیرے یا بچیری والی ہونا

مہد - بچیرا لگا یا حاصل کرنا -

ماہرہ مہارہ - ماہر ہونے میں

مقابلہ کرنا -

تمہد - ماہر و حاذق ہونا تیرنا

المہد - معوج - مہودہ و مہورہ

هذا امہد ذلک - یہ اس کا عوض ہے

یہ اس کے بدلے میں ہے -

المہد - بچیرا - پہلا بچہ جہ مہار و

امہار و مہارہ - موزن مہارہ

جہ مہد و مہارات و مہارات

المہیرہ - بہت بہرہ دانی و مہارت - جہ

مہارہ -

المہارہ - ماہر - حاذق - اچھا تیرنے والا

جہ مہارہ -

المہد - بچیرا - مرغ گھوڑوں

الابل المہد - مہارہ

بن حیدان کی طرف منسوب اونٹ

جو تیز رفتاری میں بے مثال و بے نظیر

مانے جاتے ہیں - جہ مہاری و

مہار و مہاری -

المہد - جان - پارسیوں کی عید

مہدہ (ن) مہدہ - سیدہ - امہد

سے دھکنا -

مہدہ (ن) مہدہ - جلانا - ناخنوں

سے کھرچنا -

امتہش - چل جانا

مہد - الثوب - کپڑے کو صاف کرنا

سفید کرنا -

تمہد - فی الماء - پانی میں ڈوبنا -

گھسنا -

امہدات الارض - زمین کا بے نبات

ہونا - صفت (مہدات)

مہد (ن) مہدہ - بہت سفید ہونا -

مہد (ن) مہدہ - انخل - گھوڑے

کا دوڑنا -

مہد الفصیل - اونٹ کے بچہ کو پانی

پلانا -

تمہد - الشراب - تھوڑی تھوڑی دیر

کے بعد پلانا۔

المہق - مہ - پانی پر کی سبزی۔

الْمُهَقَّ - بہت سفید۔ مَوْنَتْ مَهَقًا
ج۔ مَهَقٌمَهَقَ (ن) مَهَقًا وَمَهَقَ - (شئ)؛
ہار یک پینا۔

مَهَكًا - نرم و چٹا کرنا۔

مَهَقَ فِي السَّيْرِ - چلنے میں جلدی کرنا
تَمَهَقَ - فِي الْعَمَلِ - کام مناسب طور

سے کرنا۔

إِمَهَقَ - الرَّجُلُ - کم گوشت والا ہونا۔

— فِي الْعَدُوِّ - کوشش کرنا۔

تَنَاهَكَ - الْقَوْمُ - باہم ہسگرنا۔

مَهَكَتُ الشَّابَّ وَمَهَكَتُمَا -

جوانی کی رونق و تازگی۔

المَهُولُ - نرم کمان۔

الْمُهَكَتُ وَالْمُتَمَهِكُ - بھری

جوانی والا

الْمُهَمَّكُ - لہا کا پینے والا۔

مَهَلَّ (ن) مَهَلًا وَمَهَلَّةً وَسَهَلًا

فِي الْعَمَلِ - آرام سے بغیر عجل بازی کے

کام کرنا۔

مَهَلَّ (س) مَهَلًا - الرَّجُلُ - بھلائی میں

آگے بڑھنا۔ صفت (ماہل)

أَمَهَلَهُ وَمَهَلَهُ - الدِّينَ - مدت دینا

أَمَهَلَّ وَمَهَلَّ - الرَّجُلُ - نرمی برتنا

فِي الْأَمْرِ - مبالغہ کرنا۔ عذر کرنا۔

اسْتَمَهَكُمَا - مدت مانگنا۔

الْمَهَلَّ وَالْمَهَلَّ - آرام۔ خدمت۔ آہستگی

مَهَلًا - نرمی سے

لَا مَهَلَّ - کوئی مدت نہیں۔

عَلَى مَهَلَّ - جلدی نہ کر۔ آہستہ کر۔

ذُرِّيْ فَلَانٌ مَهَلًا - فلاں کو مدت

دی گئی۔

الْمُهَلَّ - فَلَانٌ - جیسے چاندی۔ لوہا۔

تانا۔ گچھل ہوئی دعائیں۔ پتلا قطران

زیتون کا پتلا تیل۔ زہر۔ پیپ۔

روٹی سے چھڑی ہوئی راکھ۔

المُهَلَّة - مہ - راکھ میں بچی ہوئی چنگاری۔

أَسْبَكُ - نرمی۔ پتلا قطران۔ شمار

”خَذْنَا الْمُهَلَّةَ فِي أَمْرِكَ“ اپنے

معاملہ میں سامان کو۔ ”أَخَذْنَا عَلَيْهَا

الْمُهَلَّةَ“ وہ اس سے بڑگیا رادب

یا عمر میں۔

الْمُهَلَّةُ وَالْمُهَلَّةُ وَالْمُهَلَّةُ وَ

الْمُهَلَّةُ - پیپ یا خاص میت

کی پیپ۔

الْمُتَمَهَّلُ - فا۔ لمبا آدمی۔ آہستگی سے کام

کرنے والا۔

مَهْمًا - جب کبھی جو کچھ۔ مَهْمًا

تَفَعَّلُ أَفْعَلُ - جو تکرارے گا میں کروں

گا۔ مَهْمًا يَزُرُنِي زَيْدٌ أَكْرَمُهُ

جب کبھی زید میری ملاقات کے لئے آئے

گائیں اس کی عزت کروں گا۔

مَهْمَهْ عَنِ السَّفَرِ - روکنا۔

مَهْمَهْ فَلَانًا - مہ مہ کہہ کر

ڈانٹنا تَمَهَّمْتُ عَنْ الشَّيْءِ - رک جانا

الْمَهْمَةُ وَالْمَهْمَةُ - لمبا چوڑا۔

بیابان۔ بنجر ملک۔ ج۔ مَهَامِيَةٌ -

مَهَنَ (ن) مَهَنًا وَمَهَنَةً وَ

مَهَنَةً - الرَّجُلُ - خدمت کرنا۔

مَهَنَ (ن) مَهَنًا - اپنا پیشہ کرنا۔

— الرَّجُلُ - مارنا اور سختی سے سلوک کرنا

— الثَّوْبُ - کپڑا اکھینچنا۔ بوسیدہ و

پرانا کرنا۔

مَهَنَ (ر) مَهَانَةً - حقیر و کمزور ہونا

مَا هَنَهُ مَهَانَةٌ - مشق کرنا۔

أَمَهَنَهُ - کمزور کرنا۔ خدمت لینا

إِمْتَهَنَ - الشَّيْءُ - حقیر کرنا۔ بوسیدہ کرنا

— الرَّجُلُ - لوکر رکھنا۔

— الرَّجُلُ - خدمت میں مشغول ہونا۔

الْمُهْنَةُ وَالْمُهْنَةُ وَالْمُهْنَةُ - کام

کی مہارت۔ خدمت۔ قَامَتِ الْمَرْأَةُ

بِمُهْنَةٍ بَيْنَتَهَا - عورت اپنے گھر کے

کام کاج کے لئے کھڑی ہوئی۔ هُوَ فِي

مُهْنَةٍ أَهْلِهِ - وہ اپنے اہل کی خدمت

میں مشغول ہے۔ خُذَجَ فِي ثِيَابِ

مُهْنَتِهِ - وہ اپنے کام کاج کے کپڑوں

میں نکلا ج۔ مَهْنٌ وَمَهْنٌ

الْمَاهِنُ - فا۔ خادم۔ غلام ج۔ مَهَانٌ

و مَهْنَةٌ وَمَهَانٌ - مَوْنَتْ مَاهِنَةٌ

ج۔ مَوَاهِنٌ -

الْمَهْيُنُ - حقیر۔ ضعیف۔ کم سمجھ۔ مَهْمَاءُ

مَهَا يَمَهُوْ مَهْوًا - الرَّجُلُ - زور سے

مارنا۔

مَهَا يَمَهُوْ مَهًا - الْبَقَرَةُ الْوَحْشِيَّةُ

نیل گائے کا خالص سفید ہونا۔

مَهْوِيْمَهُوْ مَهَادَةً - اللَّبَنُ اَو

السَّمْتُ - دودھ یا گھی کا پتلا ہونا۔

صفت: (مَهْوُ)

أَمَهَى - اللَّبَنُ - دودھ میں پانی زیادہ

کرنا۔ الْحَيْدَةُ - لوبہ کو تیز کرنا۔

— الْفَرَسُ - گھوڑے کی رسی لمبی چھوڑنا

چلا کر کرمانا۔ اَمَ (الْمَهْيُ) أَمَهَى

فُلَانٌ - بہت تعریف کرنا۔

حَضَرَ الْيَدَّ حَتَّى أَمَهَى - کنواں

کھودتے کھودتے پانی تک پہنچ جانا

الْمَهْوُ - مہ۔ سفید لکڑی۔ موتی۔ بتور

اول۔ تازہ کھجوریں۔ تیلے پھل والی تلوار

بہت پانی ملا دودھ۔

الْمَهَاةُ - نیل گائے۔ سورج۔ بتور۔

ج۔ مَهَادٌ وَمَهَوَاتٌ وَمَهِيَاتٌ

مَهَى يَمْهَى وَيَمْهَى مَهِيًا وَأَمَهَى

وَأَمْتَهَى - الشَّيْءُ اَو الْحَيْدَةُ

چیل کو تیز یا پتلا کرنا۔



مَهِی الشَّيْءَ جبر کو گھٹ کرنا۔

اِسْتَهْجَى - اَلْفَرَسُ گھوڑے کو پوری رفتار پر چھوڑنا - اَلْقَوْمُ قوم کا دشمن کی صفوں کو چیر کر ان کو شکست دینا۔

مَهْشِمْ کیا بات ہے کیا خبر ہے؟ تیرا کیا حال ہے؟ تمہیں کیا حادثہ پیش آیا؟ مَاءٌ يَمْشُوهُ مَوْءَا اَوْ اَمْوَاءٌ بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ صفت (مَوْءُو) وَاَمْوَاءُ الرَّجُلُ بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنا۔

الْمَائِيَّةُ وَالْمَائِيَّةُ وَالْمَائِيَّةُ بلی۔

مَاتَ يَمُوتُ مَوْتًا مرنا۔ آگ کا بجھنا بجھنا۔ کپڑے کا بوسیدہ ہونا سردی گرمی کا زائل ہونا۔ ہوا کا ٹھہرنا ماتت الحی بنجار کی تیزی کا کم ہونا مَاتَ يَمُوتُ مَوَاتًا وَمَوْتَاتًا - المکان جگہ کا ویران ہونا - اَلْطَّرِيقُ راستہ چننا۔ بند ہونا - مَاتَ قَوْقُ الرَّجُلِ گہری نیند سونا۔

مَوْتًا مارنا

اَمَاتَهُ اِمَاتَةً مارنا۔

اَمَاتَ نَفْسَهُ اپنی خواہشات کو مارنا۔ غَضَبُهُ غصہ ٹھنڈا کرنا۔

الرَّجُلُ مرے ہوئے بچوں والا ہونا۔ اَلنَّاقَةُ اَوَاْمَرَاةٌ مرے ہوئے بچہ والی ہونا۔ صفت:

(مُمِيتٌ وَمُمِيتَةٌ) ج: مَمَاوِئُ الْقَوْمِ قوم کی مویشی میں مری پڑنا - اَمَاتَ اَللَّحْمُ گوشت خوب

اچھی طرح پکنا۔

اُمِيتَ اللَّفْظُ لفظ کا متروک الاستعمال ہونا۔

تَمَاتَ مرنے کا بہانہ کرنا۔ خاموشی اور کمزوری دکھانا۔

اِسْتَمَاتَ اِسْتِمَاتَةً وَاُسْتِمَاتًا۔

موت مانگنا۔ ہر راہ سے چیز طلب کرنا ناغری کے بعد موتا ہونا۔ اَلثَّوْبُ کپڑے کا بوسیدہ و پڑا ہونا۔ اَلشَّيْءُ ڈبیل ہونا۔

اَلْمَوْتُ وَالْمَوْتَةُ موت۔ اَلْمَوْتُ اَلْاَحْسَرُ مقتول ہو کر مرنا اَلْمَوْتُ اَلْاَبْيَضُ طبعی موت یا اچانک موت۔

اَلْمَوْتُ اَلْاَسْوَدُ گھلا گھٹ کر مرنا۔ اَلْمَوْتَةُ غَشْيٌ دیوانگی۔ مرگی۔ اَلْمَيِّتَةُ مَوْتٌ مَدِيَّتٌ جانور جو طبعی موت مرا ہو۔ مَرَارَ ج: مَيِّتَاتٌ اَلْمَيِّتَةُ مرنے کی حالت اَلْمَيِّتُوتَةُ موت۔

اَلْمَوْتَانِ وَالْمَوْتَانِ جانوروں کی دبا یا مری۔ مَوْتَانِ اَلْقَوَادُ کند زہن مرنے والے مَوْتَانَتٌ۔

اَلْمَوْتَانِ موت غیر ماند چرینیں ویران زمین۔ اَلْمَائِيَّةُ قَرِيبُ الْمَرْگ۔

مَوْتُ مَائِيَّةٌ سخت موت اَلْمَيِّتُ ج: اَمْوَاتٌ وَمَوْتٌ وَمَيِّتُونَ وَاَلْمَيِّتُ ج: مَيِّتُونَ میت مردہ مَوْتٌ مَيِّتَةٌ ج: مَيِّتَاتٌ۔

وَمَيِّتَاتٌ اَلْمَوَاتُ مرے ہوئے جان چیر غیر آباد زمین۔

اَلْمَمَاتُ موت زمانہ و موت اَلْمَمَاتُ متروک الاستعمال لفظ۔

خَطِيئَةُ مَوِيَّةٌ گناہ کبیرہ تباہ کن گناہ اَلْمُسْمِيَّتُ فارموت کا سامنا کرنا۔

نَدْر۔

مَاتَ يَمُوتُ مَوْتًا وَمَوْتَاتًا اَلشَّيْءُ

بالشَّيْءِ مارنا۔ غلط ملط کرنا۔ اَلشَّيْءُ فِي الْمَاءِ پانی میں حل کرنا۔ ترک کرنا۔

اَغَاتَ حل کرنا۔ ترک کرنا۔ حل ہونا۔ ملنا۔ مَا ج: يَمْوُجٌ مَوْجًا وَمَوْجَاتًا وَتَمْوُجٌ اَلْبَحْرُ سمندر کا موج مارنا جوش مارنا۔

مَا ج: الْقَوَمُ قوم کا مضطرب و بے ترتیب ہونا۔ مَا ج: عَنِ الْحَقِّ حق سے پھر جانا۔ الگ ہو جانا۔

اَلْمَوْجُ مرے موج۔ لمر۔ مفرد (مَوْجَةٌ) مَوْجَةُ الشَّبَابِ۔ آواز جوانی۔ اَلْمَوَاجُ بہت موج اٹھانے والا۔

مَا ج: يَمْوُجٌ مَوْجًا اَلْغَضَبُ غفٹکا ٹھنڈا ہونا۔ اَلْمَاذُ خوش طبع۔ خوش اخلاق۔ اَلْمَاذِي سَفِيدٌ بَاعِدٌ شَدِيدٌ۔ تنہیا۔

ر۔ وَاَلْمَاذِيَّةُ نرم زرہ اَلْمَاذِيَّةُ شراب۔ مَارَ يَمْوَرُ مَوْسًا اَلْبَحْرُ سمندر کا موجزن ہونا۔ جوش مارنا۔

اَلْدَمُ عَلَى الْاَرْضِ خون کا زمین پر پھیل کر بہنا اَلْدَمُ خون کو زمین پر پھیل کر بہنا اَلشَّيْءُ آگے پیچھے تیزی سے

ہلنا۔ اَلثَّرَابُ غبار کا اڑنا مَارَتِ الدَّرِيحُ اَلثَّرَابَ وَاَلثَّرَابُ ہوا کا غبار اڑانا۔ مَارَ الصَّوْفُ عَنِ الْجَسَدِ جسم پر سے پشم اٹھانا۔ اَلْاِنْسَانُ فِي الْمَطْعُونِ نیزے

کا زخمی کئے بدن میں ملنا۔ اَمَارَ اَلدَمُ خون بہانا۔

اَمَارَتِ الدَّرِيحِ اَلثَّرَابَ ہوا کا خاک اڑانا۔ نیزہ کو نیزہ زدہ میں ہانا تَمَوَّرَ تردد کی حالت میں آنا جانا۔

اَلشَّوْرُ بالوں کا ادھر ادھر ہونا۔

شَعْرًا لَوَبَّرَ وَنَحْوَهُ عَنِ الدَّائِبَةِ - بال
یا اُون کا بدن پر سے گر جانا۔

— الشَّيْءُ جَبْرًا مَضْطَرَبًا هَذَا وَجَدِي
جبری حرکت کرنا۔

الْمَنَارُ الشَّعْرُ - بالوں کا گر جانا۔ اُکھڑ جانا
اُمْتَارًا اُمْتِيَارًا - السَّيْفُ - تلوار
نکالنا۔ سونٹنا۔

مَارِدٌ مَارِيٌّ - سرداری۔

الْمُؤَرِّمُ - مِم - زخم و دلام چیز۔ بہت
آمدورفت کا راستہ۔ تیزی۔

الْمُؤَرِّمُ - ہوا میں اُڑنے والا غبار۔
جس میں کچھ ہوا اُڑائے۔ ایک قسم

کے مینے۔
الْمُؤَرَّةُ - الْمُؤَرَّةُ - گری ہوئی اُون
کسی چیز سے گری ہوئی چیز۔ فنا ہونے
والی چیز کا بقیہ۔

الْمَائِرُ - فَاكَمْ عَقْلٌ آدَمِيٌّ كَسَّ جَانَهُ وَالَا
تیر۔ موت۔ مائِرۃ جہ مائِرَات
وَمَوَائِرُ۔

الْمُؤَارُ - الْمَائِرُ کا مبالغہ
رُيُحٌ مُؤَارَةٌ وَأَرْيَاحٌ مُؤَسَّ -
غبار اُڑانے والی ہوا۔

الْمُؤَرِّجُ - گہیوں زائے کا آلہ
الْمُؤَرُّ - کیلہ کا درخت۔ کیلہ۔ واحد
(مُؤَرَّة)

الْمُؤَارِزُ - کید فروش۔
الْمُؤَرِّجُ - موزہ۔ جہ۔ مؤارِ جہ و

مُؤَارِجَةٌ
مَاسٌ يَمُوسُ مُمُوسًا - الراسُ - سر ہونڈنا
الْمَاسُ - میرا۔ بے حس آدمی جس کو دغظ

و دھمکی کا اثر ہو۔
الْمُوسَى - اُسْتَرَا - مَوَاسٍ وَمُوسِيَّاتٌ
الْمُوسِيَّتِيُّ - گانے کا فن

الْمُوسِيَّتِيُّ - گانے والا۔ گویا۔
مَاشٌ يَمُوشُ مُمُوشًا - اَلْكُرْسِيُّ -

باقی ماندہ انگوٹھینا۔

الْمَاشُ - اُرْدُو - واحد (ماشتہ) گھر کا
ادنیٰ قسم کا سامان۔

مَاصٍ يَمُوصُ مُمُوصًا وَمُوصٍ
الْمُوصُ - دھونا۔ الشَّيْءُ -
ہاتھ سے ملنا۔

الْمُوصُ - مِم - مہوسا۔
الْمُوَاصَّةُ - دہ پانی جس سے کپڑے

وغیرہ دھوئے گئے ہوں۔
مُؤَاعَةُ الشَّيْبَابِ - آغاز جوانی۔

مَآغٌ يَمُوعُ مُمُوعًا وَمُؤَاعَا السَّيْنُورُ
بہن کی میاؤں میاؤں کرنا۔

مَاقٌ يَمُوقُ مُمُوقًا - الْمَبِيعُ
ارزاں ہونا۔ الطَّعَامُ - غلام ہونا

مَاقٌ يَمُوقُ مُمُوقًا وَمُوقًا
مُؤَاقَةٌ وَمُؤَاقَةٌ - الرَّجُلُ -
بے وقوف ہونا۔ ہلاک ہونا۔

تَمَاقٌ - پگل پن دکھانا۔
اِنْمَاقٌ اِنْمِيقًا - ہلاک ہونا۔

اِسْتِمَاقٌ اِسْتِمِيقًا - بے وقوف
کھینا۔

الْمَاقِيقُ - بے وقوف۔ ہلاک ہونے والا
جہ مُمُوقٌ -

الْمُوقُ - مضربے وقوف۔ غیاوت غبار
پر دار چوبیٹی۔ گوشہ چشم۔ باریک موزہ

پر موزہ۔ جہ اَمُوقٌ -
مَالٌ يَمُوقُ وَيَمَالُ مُمُوقًا وَمُؤَالًا

بہت مال والا ہونا۔ مالدار ہونا۔
مَالًا يَمُوقُ مُمُوقًا وَمُؤَالًا

اِمَالَةً - مال دنیا۔
مُؤَالًا مَالٌ دَارِنَانَا - تَمُولُ الْمَالَ -

مال جمع کرنا۔ (سَوَاسْتَمَالًا) مال
حاصل کرنا یا بہت مالدار ہونا۔

الْمَالُ جہ اَمُوالٌ - مال۔ دولت۔ اہل
بادیہ کے نزدیک مال کا اطلاق مولیٰ پر

ہوتا ہے (مذکور مؤنث) کہتے ہیں
”خَرَجَ اِلَى مَالِيَا“ یعنی وہ اپنی
جاننا دیا اونٹوں کی طرف گیا۔ جہ
مَالَةٌ وَمَالُونٌ - بہت مال والا
کہتے ہیں رَجُلٌ مَالٌ بہت مال دار
آدمی۔ مؤنث: مَالَةٌ جہ مَالَةٌ وَمَالَةٌ
مَالَادِيٌّ۔

الْمُولُ - کمدی۔ واحد (مُولَةٌ)
الْمَالِيَّةُ - دولت۔ مال کے متعلق۔
شاہی خزانہ۔

الْمُولُ وَالْمِيلُ - بہت مالدار۔
الْمُؤِيلُ - مختوری دولت۔

مُؤِيلٌ مُمُومًا - الرَّجُلُ - برسام کی بیماری
والا ہونا یا شدید قسم کی چیچک میں
مبتلا ہونا کہ سارا جسم کبیر زخم بن جائے
صفت مفعول (مُمُومٌ)

مُؤَمٌّ - مُمِيسًا - مِم - کھنا۔
الْمُؤَمَّاءُ وَالْمُؤَمَّاءُ - وسیع بیابان

یا بے آب و بیابان جہ مُمُومِيٌّ
الْمُؤَمِّمَاءُ - ایک قسم کی دوا۔

مصریوں کے طریق پر جنوط لگائے ہوئے
اجسام۔

مَالٌ يَمُوقُ مُمُوقًا وَمُؤَالًا وَمُؤَالًا
مُؤَالًا - کسی کا خرچ برداشت کرنا
(صفت کائنات)

مَانٌ اَلْاَرَضِ بَحِيَّتِي كَلَّ رُزِينِ
جوتنا۔

تَمُونٌ - خرچ جمع کرنا۔ بال بچوں پر زیادہ
خرچ کرنا۔

الْمُؤْنَةُ - خرچ۔ گزارے کے لائق
ذخیرہ۔ جہ مُمُونٌ -

بَيْتُ الْمُونَةِ - گزارہ جمع کرنے کا
کمرہ۔ اسٹوریٹس۔

الْمُؤَانُ - ذخیرہ رکھنے والا۔ ذخیرہ مہیا کرنا
مَاهِتٌ تَمُوكُهُ وَمُؤَاهَةٌ - اَلْمَبِيعُ



کفر میں کا زیادہ پانی والا ہونا۔
— السَّفِينَةُ: کشتی میں پانی داخل ہونا
— اَلْكَافِرُ: مَوَّهًا۔ الرَّجُلُ: پانی پلانا۔
— الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملنا۔

اَمَّا اَمَاهَةٌ وَاَمُوَةٌ اَمَوَاهَا
— الشَّيْءُ بِمِلَانَا: الشَّيْءُ: ملنا۔

الرَّجُلُ: پانی پلانا۔ اَلْخَوْضُ: حوض
میں پانی جمع کرنا۔ اَلدَّادَةُ: دوات
میں پانی ڈالنا۔ اَلْبَثْرُ: کنڈیاں کھود
کر پانی نکالنا۔ اَلْمَسْكِينُ:

چھری پر پانی چڑھانا۔
اَمَّا هَتِ السَّمَاءُ: آسمان کا بہت
پانی برسنا۔ اَلْأَرْضُ: بہت پانی
والی ہونا۔

مَوَّاةُ الْمَكَانُ: پانی والی ہونا۔ اَلْقَدَرُ
ہانڈی میں بہت پانی ڈالنا۔

الشَّيْءُ بِمَا الذَّهَبُ اَوْ الْفِضَّةُ وَخَوَّاهَا
گلت کرنا یا چاندی سونے کا پانی چڑھانا
— عَلَيْهِ اَلْأَمْرُ اَرَادَ الْجَزْءَ: خلاف واقعہ
جھوٹا بیان سنانا۔

تَمَوَّاةٌ: گلت ہونا۔

— الْعَيْبُ: انگو میں رس پڑ کر کہنے
کے قریب ہونا۔ اَلْمَكَانُ بِالْبَقْلِ
جگہ کا سبزہ زار ہونا۔

اَلْمَاءُ: پانی (اصل مَوَّهٌ) ہے تصغیر
مَوَّيْہُ۔ نسبت کے لئے مَوَّيْحٌ و
مَوَّيْحٌ وَاَمَّا هَتِ مِيَاہُ وَاَمَوَاهُ
وَمَاءُ الْوَسَادَةِ مَاءُ الزَّهْبِ و
تَحْوِیْہِمَا: گلاب وغیرہ کا پانی جو رِق
کی شکل میں کھینچا جائے۔

مَاءُ الْوَجْهِ: مَاءُ الشَّيْبِ
چہرہ کی رونق اور جوانی کی تازگی۔
مَاءُ السَّيْفِ: تلوار کی آب و تاب
نکالت مَاءُ: آبِ جانور۔
مُفْرَدٌ: اِنْجُ الْمَاءُ

اَلْمَاءُ اَلْأَرْزَقُ: موتیا بند۔
اَلْمَاءُ: پانی نسبت کے لئے مَوَّيْحٌ
مَاءُ الْقَوَادِ: برادل آدمی
اَلْمَاءُ: پانی تصغیر۔ مَوَّيْہُ
اَلْمَوَّهَةُ وَالْمَوَّاهَةُ مِنَ الْوَجْهِ
چہرہ کی رونق و خوبصورتی۔

اَلْمَاهَةُ: مصر چمک
بَثْرُ مَاهَةٍ: بہت پانی والا کنول
اَلْمَاهِيَةُ: مَوْنُ اَلْمَاهِي
مَاهِيَةُ الشَّيْءِ: چیر کی حقیقت۔
ج مَاهِيَاتُ۔

اَلْمَاهِيَةُ وَالْمَاهِيَةُ مِنَ الشَّجَرِ
اس وہ سیال مٹی جس سے درخت کو
غذا حاصل ہو۔

اَلْمَاهِيَةُ آيُنُهُ ج مَوَّيْحٌ
رَکِیْتُ مِيْہَةً: بہت پانی والا کنول
اَلْأَمْرُ: بہت پانی والا۔

اَلْمَوَّهَةُ مَعَ: ناخدا دار آنکھ
مَا تَ يَمِيْتُ مِيْتًا مَرًا
مَا تَ يَمِيْتُ مِيْتًا وَمِيْتٌ۔

الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ: پانی میں حل کرنا۔
مِيْتٌ الرَّجُلُ: ذیل کرنا۔
تَمِيْتُ: الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ حل ہونا۔
— الرَّجُلُ: ذیل ہونا۔

تَمِيْتُ اَلْأَرْضُ: زمین کا بارش
سے نرم ہونا۔

اَلْحَرَارَةُ: ٹھنڈی ہونا۔
اَلْمَاتُ اَلْمِيَاثُ: الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ
پانی میں حل ہونا۔

اَمْتَاتُ: الرَّجُلُ: زندگی کا آرام پانا
— اَلْأَقْطُ: پیر کو پانی میں جھگو کر کھانا
— الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ: حل کرنا۔

اَلْمِيْتُ: نرم۔
أَرْضٌ مِيْتًا: نرم زمین۔
مَا جَ يَمِيْجُ مِيْجًا: الشَّيْءُ مَحْتَمِلٌ هُونًا

مَلَا بِرَاسِنَا۔
مَا حَ يَمِيْجُ مِيْجًا وَمِيْجُوْحَةً۔

پانی سے چلے بھڑنا۔
— اَلْمَلَا: ساتھیوں کے لئے چلے چلنا
پانی پینا۔ الرَّجُلُ: نفع دینا۔
— اَلْعَنْدُ الْاَمِيْزُ: سفارش کرنا۔
مَا حَتِ اَلرَّيْجُ الشَّجَرُ: ہوا کا
درخت کو جھکا دینا۔ مَا حَ الرَّجُلُ
خزے اور کبر سے چلنا۔

مَا حَ يَمِيْجُ مِيْجًا وَمِيْجُوْحَةً دِيْنَا
مِيْجَ تَمِيْجًا اَلْعَضْنُ اَو الشَّرَانُ۔
جھکنا ملنا۔

مَا يَحَ مُمَايَحَةً: غلط ملط ہونا۔
اِمْتَا حَ الْمَاءُ: چلنے لینا۔ الرَّجُلُ
بخشش طلب کرنا۔

تَمِيْجُ: ناز و انداز سے چلنا۔ دایس
بائیں جھکنا۔

تَمَا حَ: ڈنگنا۔
اِسْتَمَا حَهُ اِسْتَمَا حَةً: بخشش مانگنا
یا سفارش کرنے کی درخواست کرنا۔

اَلْمَا حَ ج مَاحَهُ اَلْمِيَا حَ: چلنے
سے پانی پلانے کی درخواست کرنا۔
مَا دَ يَمِيْدُ مِيْدًا اَوْ مِيْدًا اَتَا۔
حکمت کرنا۔ ملنا۔ کانپنا۔

مَا دَتَ بِهِ اَلْأَرْضُ: زمین اس
کے ساتھ گھوم گئی۔ اَلْعَضْنُ:
شاخ کا جھکنا۔ ملنا۔ الرَّجُلُ:
مکتبہ اور ناز سے چلنا۔ سرھکنا۔
مَا دَ الرَّجُلُ: زیارت کرنا۔ نیکی
کا سلوک کرنا۔

تَمَا يَ: نشاط سے جھومنا۔
تَمِيْدًا اَلْمَدَاةُ: عورت کا ناز
سے چلنا۔

اِمْتَادَ اَمْتِيَادًا: بخشش مانگنا
اَلْمَا سِدُ: جھکے والا جھگڑا کرنے والا ج

ج میندی۔
الْمَيْدَانَةُ - مؤنث المائد۔

کھانا چاہوا دسترخوان۔ کھانا۔
زمین کا دائرہ ج: مَوَائِدُ وَ
مَائِدَاتُ۔

المیڈۃ - کھانا۔ کھانا چاہوا دسترخوان
میدان (پچائے میدان) کہوں کہ،
حتیٰ کہ۔

میددی۔ یوجد۔ اس لئے۔

فَعَلَهُ مَيْدَى ذَاكَ۔ اس نے
اس کو اس وجہ سے کیا۔

دَارِي مَيْدِي دَارِي۔ میرا گھر
اس کے گھر کے مقابل ہے۔

میداء۔ پیمانہ۔ مقدار۔ سوک کی بانی
المیدان والمیدان۔ گھوڑے
دورانے یا کھیل کود کے لئے کشادہ

میدان ج: مبادین
المیاد۔ بہت بڑے والا۔ مؤنث

مَيَادِي - بخشش مانگنے والا جس سے
بخشش مانگی جائے۔

مَا رَ يَمِيرُ مِيرًا وَ أَمَارَ عِيَالًا:
عیال کے لئے خوراک لانا۔

الدَّاءُ وَ النَّحْلُ - دوا وغیرہ
گھلانا۔

مَا رَ الصُّوْفُ أَوْنُ وَ ضَعْنَا۔

أَمَارَ أَوْ دَجَهَ۔ رگیں کا ٹپنا۔

مَا يَرُكَ مُمَايِرَةً خَرَكَ لَنَا نَقْلَ
اتارنا۔

تَمَايَرَ تَمَايَرًا۔ مَا بَيْنَ الْقَوَمِ -
فساد پڑنا۔

إِمْتَادَ - خوراک مہیا کرنا۔

المیز۔ مصر۔ کھانا۔ خوراک۔

الْمَيْدَةُ - ذخیرہ کی ہوئی خوراک ج: مَيْدُ
الْمَيْدُ - اسم فاعل خوراک لانے والا۔

ج مَيَارَ وَ مَيَارَةً
الْمَيَارَ - خوراک لانے والا۔

الْمَوَارِدُ - دھننے میں اون کا گرا ہوا حصہ
مَا رَ يَمِيرُ مِيرًا وَ مَيَرُو أَمَارَ -
الشیء علیہ ذکرنا۔ جدا کرنا۔

الشیء: چیز کہ دوسری چیزوں پر
ترجیح دینا۔ فرقیت دینا۔
مَا رَ فَلَانٌ - ایک جگہ سے دوسری
جگہ منتقل ہونا۔

تَمَيَّرَ وَ إِنْ مَارَ أَمْتَارَ
إِمْتِيَارًا وَ اسْتَمَارَ وَ اسْتَمَالَةً
جدا ہونا۔

تَمَيَّرَ فَلَانٌ مِنَ الْغَيْطِ - غصہ
سے بھٹ پڑنا۔

تَمَيَّرَ الْقَوْمُ - کہیں دوسرے جدا ہونا
اسْتَمَارَ - علیحدہ ہونا۔

تَمَايَرَ الْقَوْمُ - بھٹ جانا مختلف
گروہوں میں بٹ جانا۔

الْمَيَّرَ وَ الْمَيَّرَ - مضبوط ٹھکوں والا
الْمَيَّرَ - مَيَّرَ - مصدر - ایک قوت

نفسانی جس سے معافی کا استنباط ہو۔
سِتَ التَّمَيَّرَ سَجَہ کی مگر بُرائی

بھلائی پہنچانے کی عمر۔
الْمَيَّيَارَ - پروانہ۔ سبز۔ لائسنس

حق۔ ج: اَمْتِيَارَات -
مَا سَ يَمِيرُ مِيرًا وَ مَسِيَارًا

وَتَمَيَّرَ - الرجل - ناز و نخرہ سے
چلنا۔ صفت (مَا لَيْسَ وَمَيَّاسٌ وَ

مَيَّاسَانٌ وَ مَيَّوسٌ -
مَيَّاسٌ - الثَّوْبُ - کپڑے کا دامن بنانا

المسبیس۔ مصر۔ ایک بڑا درخت
واحد (میسست)

الْمَيَّسُ - ایک قسم کی کش مش بد بیلوں
کے درمیان کی لمبی کڑی۔ کچا وہ۔

الْمَيَّاسُ - شیر۔ بھیڑیا۔

الْمَيَّاسَانُ - بہت تر چمکنے والا ستارہ
ج: مَيَّاسِي -

مَا شَ يَمِيرُ مِيرًا مَيَّاسًا الشَّيْءَ لَمَّا
الْمَا شَ - اوستی کا نصف
دودھ دونا۔ الجوز۔ بعض

خبر نانا۔ بعض چھپانا۔
مَا طَ يَمِيرُ مِيرًا وَ مَيَّاسًا وَ أَمَّا طَ

أَمَّا طَ - عَنْ كَذَا - دودھ بھجنا۔
معیہ ہونا۔

مَا طَمَ وَ أَمَّا طَمَ وَ مَا طَمَ بِهِ شَانَا
رُور کرنا۔ مَا طَمَ الرَّجُلُ - ظلم کرنا

فَلَا تَأْ - اُنشأ۔ شانا۔
الشیء: جانا۔

مَيَّطَ تَمَيَّطًا - يَنْهَمَا - نال کرنا۔
تَمَايَّطَ الْقَوْمُ - ایک دوسرے سے

دور ہونا۔ فساد واقع ہونا۔
مَا يَظ - بَيْنَ - الشَّيْءَيْنِ - ترجیح دینا

الْمَيَّطُ - کہتے ہیں "مَا عَيْدَةُ مَيَّطُ"
اس کے پاس کچھ نہیں۔

الْمَيَّاطُ - ڈانٹ۔ نفرت۔ بھٹکنا۔ دوبار
تبادلہ۔ "هَمُّ فِي هَيَّاطٍ وَ مَيَّاطٍ"

وہ گھبراہٹ میں ہیں، وہ آمد و رفت میں
ہیں۔

مَا عَ يَمِيرُ مِيرًا - الشَّيْءُ - زمین میں
پھیل کر رہنا۔ گھوڑے کا دوڑنا۔


مَا عَ وَ اِنْ مَارَ اِنْ مَيَّاسًا وَ تَمَعَّ
تَمَعًا - السَّمْعُ - بگٹی کا گھل کر رہنا

صفت (مَا يَجُ) مؤنث مَا يَجُ
أَمَّا عَ اِمَّا عَا دَامَا عَا - بہانا۔

مَيَّعَةُ - الشَّيْءُ - اول شے۔ اصل شے۔
مَيَّعَةُ الشَّبَابِ - آغاز جوانی

مَيَّعَةُ الْقَمَرِ - گھوڑے کی دوڑ
کا آغاز۔ اَلْمَيَّعَةُ - زمین پر

گرانی چیز کا سیلان۔ ایک خوشبودار گند
الْمَايَعُ - بیٹنے والی چیز۔ بیوقوف المایعة



الْمَيْلَةُ - گنجان درخت - ریت
 کا میل - پگڑی باندھنے کا طرز
 الْمَيْلُ - فاجہ - مکیل و مائل
 مؤنث مائکتہ - جہ مائلات
 و موائیل -
 الْمَيْالُ - بہت جھکنے والا - مؤنث
 مَيْالَةٌ -
 مَا نَ يَمِينُ مَيْتًا - جھوٹ بولنا -
 صفت (مَا يَمِينُ وَمَيْتٌ و
 مَيْوُنٌ) -
 مَا نَ الْأَرْضُ - زمین کو کسی کے لئے
 جوتنا -
 تَمَا يَنَ الْقَوْمُ - ایک دوسرے پر
 جھوٹ بولنا -
 الْمَانُ - بل کا پھل یا پھلہ -
 الْمَبْنُ - جھوٹ جہ مَبْنُ
 الْمَيْنَا وَالْمَيْنَا - بندرگاہ جہ مَوَانِ
 و مَوَانِي -
 الْمَيْنَاءُ - آبگینہ -
 مَا لَا يَمِينُهُ مَيْهًا وَمَيْهَةً - السِّبْ
 وَغَيْرُهُ سِمَاءُ السَّهْبِ
 تلوار وغیرہ پر سونے کا پانی چڑھانا
 — فَلَانَا - پانی پلانا -
 مَا هَتَّ الْبُؤْرُ كُنْزٍ كَا بَهْتِ پانی
 والا ہونا -
 مَا لَا يَمِينُهُ مَيْهَةً وَمَاهَةً
 وَمَيْهَةً - السَّحَابَةُ - کنز
 کے پانی کو زیادہ کرنا -
 الْمَاهَةُ وَالْمَيْهَةُ - کنز کے
 پانی کی کثرت -

أَمَالَ أَمَالَةً - الشیء جھکانا -
 — بَدَأَ بِالْفَرْسِ - گھوڑے کی لگام
 ڈھیلی کرنا -
 أَمَالَتِ الْمَرْأَةُ - نقاب اتارنا
 أَمَالَ الْقَارِي - قاری کا پڑھنے میں اہل کرنا
 مَا يَكُلُ مَمَّا يَكُلُ - موافقت کرنا - مدد
 دینا - جملہ کرنا - جھکانا - محبت کرنا -
 تَرْجِيحُ دینا -
 تَمِيلُ وَتَمَائِلُ تَمَائِلًا فِي مَشْيِهِ
 ناز و نحو سے چلنا -
 بَيْتُ تَمَهُمُ تَمَائِلُ - ان میں اختلاف
 و فساد ہے
 اسْتَمَالَ اسْتِمَالَةً - مائل ہونا
 — فَلَانَا وَبَقْلِهِ - جھکانا - مہربانی
 چاہنا - مَا فِي الْوَعَاءِ - جو کچھ برتن
 میں ہو اس کو لے لینا -
 اسْتَمَالَ - دونوں کف یا ذراع سے ناپنا
 الْمَيْسِلُ - برسر لگانے کی سلاخی - زخم
 وغیرہ ناپنے کا آلہ - میل کا پتھر نظر کی
 حد چار ہزار لمبھ کا فاصلہ - جہ :
 أَمْيَالٌ وَأَمْيَالٌ وَمَيْوَلٌ
 الْمَيْلَةُ - وقت - زمانہ - لمحہ جہ :
 مَيْلٌ - السَّهْمُ مَيْلٌ
 زمانہ گردشوں والا ہے -
 إِلَّا مَالَةً - مہم - أَمَالَ فِي الْقَرَاةِ
 فتح کو کسو کی طرف اور الف کو یاد کی
 جانب جھکانا -
 إِلَّا مَيْلٌ - زیادہ جھکا ہوا - بزدل -
 زیادہ بھرد - کج - زمین سے ایک
 طرف کو جھکنے والا - بے ہتھیار -
 مؤنث مَيْلَةٌ

مؤنث الْمَائِعُ -
 گھوڑے کی پیشانی کے بال جہ :
 مَوَائِعُ
 مَالٌ يَمِيلُ مَيْلًا وَتَمِيلًا وَتَمِيلًا
 وَتَمِيلًا وَتَمِيلًا وَتَمِيلًا
 — اِلَى الْمَكَانِ - کھڑنا -
 اِلَى الشَّيْءِ - اَوَ الشَّخْصِ - رغبت کرنا
 محبت کرنا - عَنِ الطَّرِيقِ - حجاز کرنا
 چھوڑ دینا - الْكَائِبُ - دیوار کا
 جھکانا - الْحَاكِمُ فِي الْحُكْمِ - حاکم کا فیصلہ
 میں ظلم و نا انصافی سے کام لینا -
 — عَلَيْهِمُ الدَّهْرُ - زمانہ کا مصائب
 و حوادث کا آنا - كَالْبُقَاكِ -
 غالب آنا - مَالُ الشَّيْءِ - جھکانا
 مَا لَتْ تَمِيلُ مَيْوَلًا - الشمس سورج
 کا ڈھلتا یا ڈوبنے کے قریب قریب
 ہونا - مَالُ النَّهَارِ أَوِ اللَّيْلِ
 دن و رات کا ختم ہونے کے قریب ہونا
 مَالٌ نَبَا الطَّرِيقِ - راستہ
 ہمارے لئے لمبا ہو گیا -
 مَيْلٌ مَيْلًا - پیدائشی کج ہونا -
 صفت (دَامِيْلٌ)
 مَيْلٌ تَمِيلٌ - الشیء پیدائشی کج
 ہونا - - جھکانا - فِي الْكَافِ بِجَنَکِ
 کرنا - بَيْنَ الْاَمْرَيْنِ - دو
 کاموں میں پس و پیش کرنا - مثلاً
 کہتے ہیں "قَرَبَ لَنَا كَعَاكُا -
 فَمَيْلٌ فِيهِ لِحِجَّتِهِ" - یعنی کھانا
 سامنے آنے پر اس کی کمی کی وجہ
 سے مترد ہوا کہ اس کو کھائے یا
 چھوڑ دے -

ن

النَّاعِرِينَ - وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ
 غَافِلًا - ماضی کی تاکید اس سے جائز

اور ثقیلہ - یہ دونوں فعل کے ساتھ
 محقق میں جیسے لِيَكُونَنَّ مِنْ

ن - حرف ن پانچ طرح کا ہوتا ہے -
 (۱) نون تاکید - اس کی دو قسمیں ہیں خفیفہ

نَا نَا نَا نَا وَنَا نَا عَنِ الْأَفْرِسْتِ
 ہوتا۔ عاجز ہونا۔ قاصر ہونا۔ فی الدرای
 رائے میں کمزور ہونا۔ صفت (نَا نَا و
 نَا نَا فُلَانًا۔) بھی غذا دینا۔ ارادہ کے
 روکنا۔ باز رکھنا۔
 نَائِي نَائِي نَائِي نَائِي فُلَانًا وَنَائِي
 عَنِ فُلَانٍ۔ دور ہونا۔ صفت (نَا و)
 مونس نَائِي۔
 نَائِي وَنَائِي وَنَائِي وَنَائِي خِيَمَةِ كَرْدِ
 چوپڑی کھودنا۔
 نَائِي مَنَا آةَ الرَّجُلِ۔ دور کرنا
 الشَّرَّ عَنْ فُلَانٍ کسی سے بُرائی
 دور کرنا۔ ہٹانا۔
 نَائِي فُلَانًا عَنْهُ۔ دور کرنا۔
 نَائِي نَائِي وَنَائِي وَنَائِي
 دور ہونا۔ النَائِي وَالنَّوِي وَ
 النِّي وَالنَّوِي خِيَمَةِ كَرْدِ اگر
 کی نالی یا چوپڑی آئے و نَائِي وَ
 شَيْئِي وَنَيْئِي۔

النَّائِي۔ دور

النَّائِي۔ دور جگہ۔

النَّائِي۔ بانسری

نَبَّ (مَنْ) نَبَّ وَنَبَّيَا وَنَبَّيَا
 الْكُنُي نَحَا صَتَمًا مِيْنُ مَعِ كَاجَشِ
 کے وقت آواز نکالنا۔

نَبَّ نَبَّيَا۔ الِکْبَات۔ پردہ کا
 پوریوں والا یا گانٹھ دار ہونا۔

نَبَّيَا۔ الِکْبَات۔ پانی کا بہنا۔
 الِکْبَات۔ بدبو۔

الْأَنْبُوبُ۔ بانس یا نکل وغیرہ کا پورا۔
 دو گروں کے درمیان کا حصہ۔ ہر گول

جوف دار چمن پر بھی اس کا اطلاق ہوتا
 ہے۔ الْأَنْبُوبُ الِکْبَات۔ نالی۔

الْأَنْبُوبُ الْكُوْنُ۔ کوزہ کی ٹونٹی۔
 الْأَنْبُوبُ مِنَ الشَّجَرَةِ۔ درختوں

کی قطار۔ اَنَا بَيْبُ الرِّبَةِ پھیر
 کی سانس لینے کی نالیاں۔

الْأَنْبُوبُ وَالْأَنْبُوبَةُ۔ بانس یا نکل
 کا پورا۔

نَبَّ (ف) نَبَّ وَنَبَّوْا۔ الشَّيْءُ
 بلند ہونا۔ دور ہونا۔ نَبَّ سَمْعِي

عَنْ كَذَا۔ میرے کان نے اس
 سے نفرت کی۔ عَلَى الْقَوْمِ۔ ظاہر

ہونا۔ برآمد ہونا۔ مِنْ أَرْضِي إِلَى
 أَرْضٍ۔ ایک زمین سے دوسری زمین

کی طرف جانا۔
 نَبَّ (ف) نَبَّ۔ آہستہ آواز نکالنا۔

نَبَّ نَبَّيَا وَنَبَّيَا دَائِيًا
 فُلَانًا الْخَبْرَ بِالْخَبَرِ خَرَدِيَا

أَنْبَا۔ ہٹانا۔ ایک ملک سے دوسرے
 ملک کو نکال دینا۔

نَبَّ هَذَا مَنَا بَاةَ۔ ایک دوسرے کو خبر دینا
 نَبَّ الْقَوْمِ۔ قوم سے دور ہونا

قوم کے پردوں کو چھوڑ دینا۔
 نَبَّ نَبَّوْا۔ نبوت کا دعویٰ کرنا۔

اِسْتَبَّيَا۔ الرَّجُلِ۔ خبر دریافت کرنا۔
 اَلْبَيَا۔ خبر کی تفتیش کرنا۔

اَلْبَيَا۔ خبر جہ اَنْبَا۔
 اَلْبَيَا۔ کزور آواز۔ کتوں کی آواز

اَلْبَيَا وَاَلْبَيَا۔ خدا تعالیٰ کی
 طرف سے اہم یا کر عیب کی بات

بتانا۔ پیشین گوئی کرنا۔
 اَلْبَيَا وَاَلْبَيَا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف

سے اہم کی بنا پر عیب کی باتیں
 بتانے والا۔ پیشین گوئی کرنے والا

خدا تعالیٰ کے متعلق خبریں دینے والا
 نسبت کے لئے نَبَّوْا جہ اَلْبَيَا

دَکْبِيُوْنَ وَاَنْبَاءُ وَنَبَّيَا مَوْنُ
 نَبَّيَا جہ نَبَّيَا۔ اَلْبَيَا۔
 واقعہ راستہ۔ ٹیڑھی بلند جگہ۔ ایک

جگہ سے دوسری جگہ جانے والا۔
 اَلْبَيَا۔ ٹیڑھی بلند جگہ۔

نَبَّ (ن) نَبَّ وَنَبَّيَا۔ اَلْبَيَا
 سبزی والی ہوتا۔ اَلْبَيَا سبزی

کا زمین سے چھوٹنا۔ (نَبَّوْا)
 شَدَّي الْجَارِيَةِ رَدَّي کے پتوں

کا بھرنے۔
 نَبَّ (ن) نَبَّ وَنَبَّيَا۔ اَلْبَيَا

جوان ہونا۔
 اَنْبَت۔ اَلْبَيَا۔ جگہ کا سبزہ اگانا۔

اَلْبَيَا سبزی کا اگانا یا اگانا۔
 اَلْبَيَا۔ لڑکے کا جوان ہونا صفت

مَنْبُوت۔
 نَبَّ۔ اَلْبَيَا۔ غلبہ ہونا۔ پودہ لگانا

بچہ کی پرورش کرنا۔
 نَبَّ الشَّيْءُ۔ ظاہر ہونا۔

النَّبَّ۔ م۔ سبزی جہ مَبُوت۔
 واحد نَبَّيَا۔

النَّبَّات م۔ جو کچھ زمین اگائے جیسے
 پودا۔ بیل گھاس۔ واحد نَبَّاتہ

جہ نَبَّاتَات وَاَنْبَتَات مَعْلَم
 النَّبَّات۔ نباتات کا علم

النَّبَّات۔ نبات کی طرف نسبت۔ علم
 نباتات کا ماہر

النَّبَّات۔ فَا۔ نئی اگی ہوئی سبزی۔
 اَلْبَيَا۔ مونس اَلْبَيَا آدمیوں

یا مولیوں کے بچے جہ کَوَابِٹ۔
 اَلْبَيَا۔ شاخ۔ چھڑی۔ ٹونڈا۔

جہ نَبَّات۔
 اَلْبَيَا۔ م۔ درخت۔ پودا

درخت خرمائی چھائی ہوئی شاخیں
 جہ نَبَّات۔ اَلْبَيَا۔ اگنے کی جگہ۔

اَلْبَيَا۔ بہت نباتات والی زمین
 اَلْبَيَا۔ غمخشاں کا پودا جہ نَبَّات



واحد (بَيِّنُوغَةً) نَبَتْ (ن) نَبَتْ - البتة - كنوا كهود
 کر مٹی نکالنا - التراب - کنویں
 وغیرہ سے مٹی نکالنا - عن البتة
 أو الأهمی کسی بھید کا معاملہ کی چھان
 بین کرنا - فلان غضبناک ہونا
 اُنْتَبَتْ - التراب - کنویں وغیرہ سے
 مٹی نکالنا - الشیء لینا -
 تَنَابَتْ - القوم - آپس میں بحث کرنا
 تَنَابَتْ القوم عن البتة - لوگوں
 نے راز کے متعلق بحث کی -
 اِسْتَنْبَتْ عن البتة بھید کی تحقیقات
 کرنے میں کوشش کرنا -
 اَلْنَبْت - نشان - کھوج - ج اَنْبَات
 اَلْنَبِیْتُ - شریہ -
 اَلنَّبِیْثَةُ - کنویں یا نہر کی نکالی ہوئی
 مٹی - بھید - راز ج: نَبَايَتْ
 اَلْأَبْوَشَةُ - بچوں کا ایک کھیل - وہ
 یہ کہ مٹی میں کوئی چیز چھپا دیتے ہیں جو
 اس کو ڈھونڈ نہ نکالتا ہے بس وہی
 جیت جاتا ہے -
 نَبَجَ (ض) کبھی جا - سخت آواز -
 سخت کلام ہونا - صفت نَبَاج
 نَبَجَتْ (ن) کَبَجًا - اَلْقَبَجَةُ
 جگہ پر یا تیر کا اپنے سوراخ سے نکالنا
 اَنْبَجَ - بولنے میں پھپھانا - بیلہ پر بیٹھنا
 اِسْتَبَجَ وَتَبَجَ - العظم: ہڈی کا
 سو جانا -
 اَلنَّبَجَةُ - بیلہ -
 اَلنَّبَاج - جھوٹا بھونکے والا کتا -
 اَلنَّبَاج - ناکارہ آدمی گوز -
 نَبَاجُ الْكَلْب - کتے کی آواز -
 اَلنَّبَاجَةُ - مؤنث - نَبَاجٌ - ہرن -
 چوڑا
 اَلنَّبَاجَةُ - مصیبت

اَلنَّبَاجُ - بلند ٹیلے -
 اَلنَّبَاجَان - دھکی - ج: نَبَاج
 اَلْمُنْبَج - جھوٹے وعدے کرنے والا
 نَبَحَ - (ف ض) نَبَحًا، نَبُوحًا
 وَ نَبَحًا، نَبَاحًا وَ نَبَاحًا
 تَنَبَّحًا - اَنْكَلَبُ - کتے کا
 جھونکنا - صفت - نَبَاحٌ - ج -
 نَوَاجِحٌ وَ شَجَحٌ وَ بُيُوحٌ
 نَبَاحٌ - دراصل کتے کی آواز کے لئے
 ہے - مگر بطور مجاز ہرن، بکرے
 کی آواز پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں -
 نَبَحَ - (ف) نَبَاحًا - الهد الهد
 زیادہ عموماً ہونے کے سبب اس کی
 آواز کا بھاری ہونا -
 نَابَحَهُ - مُنَابَحَةً - اَنْكَلَبُ - کتے کا
 کسی پر جھونکنا -
 اَنْبَحَهُ وَ اِسْتَبَحَهُ - جھونکنا
 اَلْمُسْتَبَجُ - کتوں کو جھونکانے والا
 یعنی رات کو آنے والا -
 اَلنَّبَاح - بہت جھونکنے والا سفیدی
 جو تعویذ کے طور پر استعمال ہوتی ہے
 واحد نَبَاحَةٌ کَلْبٌ نَبَاحٌ
 اوسنی آواز سے بھاگنے والا کتا -
 اَلْمُنْبُوحُ - گالی دیا ہوا -
 نَبَخَ (ن ض) بُيُوحًا - اَلْعَجِينُ
 آٹے میں خمیر اٹھانا -
 اَنْبَخَ - اَلْعَجَانُ - خمیر اٹھانا
 الرُّبْلُ - نرم زمین میں کھیتی کرنا -
 اَلنَّبَخُ وَ اَلنَّبَخُ - چھالا - آبلہ
 اَلنَّبَخَةُ وَ اَلنَّبَخَةُ - نکتہ
 اَلنَّبَاحَةُ - دور کی زمین تکبر اور سختی
 سے بولنے والا ج: نَوَاجِحُ
 اَلْأَنْبَخُ - سخت اندام - ٹیلے رنگ
 والا - بہت مٹی - اَلْأَدَمُ اَلنَّبَاحُ
 اُٹھی ہوئی بلند زمین - نرم زمین

ج: نَبَاحٌ
 اَلنَّبَاحُ وَ اَلْأَنْبَاحَان - مین
 اَلْعَجِينُ - پھولا ہوا ترش خمیر -
 نَبَدَ (ض) نَبَدًا - اَلشَّيْءُ جھینکا
 اَلْأَمْسُ - بیکار کرنا - اَلْعَهْدُ
 عہد توڑنا -
 نَبَدَ وَ نَبَدًا - اَلنَّبِيدُ - بنید
 بنانا - اَلْعَيْبُ اَوِ الشَّعْرُ
 انگریز یا کھجور کا بنید بن جانا -
 نَبَدَ الشَّيْءُ جھینکا
 نَبَدًا (ض) نَبَدًا اَوِ نَبَدًا اَنَارًا
 کا حرکت کرنا -
 نَابَدَهُ مَتَابَدَةً وَ نَبَاذًا مِثْلًا
 کرنا اور دشمنی سے جدا ہونا -
 اَلْحَرْبُ - اعلان جنگ کرنا
 اَلْبَيْعُ - بیع منابذہ کرنا -
 زمانہ جاہلیت کی ایک بیع جس میں
 مشتری بیع پر کنکر پھینکتا تھا اور
 کتا تھا جس پر یہ کنکر لگ جائے وہ
 میری ہے - اسی کو بیع اَلْقَاءِ اَلْمَحْرُ
 اور بیع اَلْحَصَاۃ بھی کہتے ہیں -
 تَنَابَذًا - باہم اختلاف و دشمنی سے
 جدا ہونا -
 اِنْتَبَنَ - اَلنَّبِيدُ - بنید بنانا -
 اَلْعَيْبُ اَوِ الشَّعْرُ - بنید بنانا -
 عَن الْقَوْمِ قوم سے الگ کرنا -
 فَلَانٌ عَزَلَتْ نَشِیْنُ ہونا -
 اَلنَّبِيدُ مہ - تھوڑی سی چیز - ج -
 اَنْبَاذُ - اَنْبَاذُ النَّاسِ -
 اوباش لوگ -
 اَلنَّبَذَةُ وَ اَلنَّبَذَةُ - گوشہ
 قلعہ ج: نَبَدَ -
 اَلنَّبِيدُ - پھینکا ہوا - مؤنث نَبِيدَةٌ
 کھجوروں یا انگریزوں سے بنی ہوئی
 شراب - انگریزوں یا کھجوروں کا



رس - شراب ج اُنْبَذَة
الْمُتَبَوِّدُ - مفعہ حرام کا بچہ - بچہ جو راستہ
میں پھنک دیا گیا ہو۔

النَّبَاذُ - نبذہ بچنے والا۔

الْمُنْبَذَةُ - بیکہ - سرانہ جہ منابذہ

نَبَزَ - رن (نَبَزَا - الْعَلَامُ رن کے

کا برصنا - الْمَغْتَنَى - گوئیے کا

آواز کو نسبت کرنے کے بعد اٹھانا

الرَّجُلُ - ڈانٹنا - جھڑکنا -

ہ لیسنا - نبیت کرنا - الْخَوَفُ

حرف پر ہمزہ لگانا - الشیء - بلند کرنا

الرُّوحُ - تیزی سے نیزہ اٹھانا

اَنْبَزَ - اَلَا مَبَارَ - ابار نہانا۔

اَنْتَبَزَ - اَلْجُرُوحُ - زخم کا سوجنا

اَلْخَطِيبُ - خطیب کا منبر پر چڑھنا

اَلْحَبْدُ - بدن کا مٹوم ہونا -

اَنْتَبَرْتُ سِدَا - اٹھیں چھالا

بڑھنا۔

النَّبَزُ - مصربے شرم جلدی سے لگائی

ہونی ضرب۔

النَّبَزُ - جیچڑی - ایک قسم کی مکھی۔

لیست قد - کمینہ جہ نَبَارَ اَنْبَارَ

اَلنَّبَزُ وَالْاَنْبَارُ - غدر کھنے کی

کو ٹھہری جہ اَنَابُزُ وَاَنَابُزُ

اَنْبَارَات -

النَّبَزَةُ - اوپر کے ہونٹ کا درمیانی گھلنا

ہمزہ - ورم - آواز کی بلندی - نمایا

بلند چیز۔

النَّبَزَةُ - بڑا لقمہ - جہ نَبَزُ

النَّبَزُ - پنیر۔

النَّبَزُ - وانا آدی

اَلنَّبَارُ - چلانے والا - فیصح

اَلْمُنْبَزُ - وہ بلند جگہ جس پر چڑھ کر

خطیب یا واعظ لوگوں کو خطاب

کرتا ہے جہ مَنَابُزُ

قَصَائِدُ مُنْبَذَةٌ وَمُنْبَوْرَةٌ

ہمزہ کے قافیہ والے قصیدے

النَّبَاسُ - لیمپ - چراغ لالین۔

نیزے کا سرا - دبیر - جرأت والا

شیر - جہ نَبَارِیس -

النَّبَارِیس - قریب قریب کنیں

النَّبَارِیس - ہوشیار

نَبَزَ (رہن) نَبَزَا و نَبَزَہ - بُرَا

لقب دینا - تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ

ایک دوسرے کو شرم دلانا - ایک دوسرے

کو بڑے لقب دینا۔

النَّبَزُ - لقب جہ - اَنْبَار

النَّبَزُ - بڑا - کمینہ۔

النَّبَزَةُ - بڑے لقب دینے والا۔

نَبَسَ (رہن) نَبَسًا و نَبَسَةً و

نَبَسَ - یا نَبَسَ - بولنا - اس کا

استعمال نفی میں زائد ہے جیسے کہتے

ہیں - مَا نَبَسَ بِكَلِمَةٍ - وہ ایک کلمہ

بھی نہیں بولا۔

السِّرَ - بھید چھپانا - نَبَسَ الرَّجُلُ

آدمی نے حرکت کی یا جلدی کی۔

اَنْبَسَ - جلدی کرنا - ذلت سے خاموش

ہونا - اَلنَّبَسُ - بولنے والے

جلدی کرنے والے رَجُلٌ اَنْبَسَ

اَلْوَجْهَ - ترش رو - تیوری جڑھا نیلا

مَوْنَتْ نَبَسًا - جہ نَبَسَ -

نَبَسَ (رہن) نَبَسًا - الشیء اَلْمُسْتَوْرُ

ظاہر کرنا - اَلنَّبَزُ مِنَ الْاَرْضِ

دفینہ کھود کر نکالنا - اور اسی سے

ہے نَبَسَ اَلْقَبْرُ - الْحَدِثُ

نکالنا - السِّرَ - راز افشا کرنا

عَنِ الْاَسْرَارِ - بھیدوں کو نکال

لینا - نَبَسَ لِعِيَالِهِ - کہنے کے

لئے کائی کرنا۔

اَنْتَبَسَ - الشیء مِنَ الْاَرْضِ کھود کر

نکالنا۔

اَلنَّبَشُ - ایک قسم کا درخت

النَّبَشَةُ - کھردی ہوئی زمین یا کنواں

النَّبَشُ - قبر کھودنے والا۔

النَّبَشَةُ - گوئیے کا پیشہ۔

اَلْمُنْبَوِّسُ - کھدا ہوا۔ اَلْمُنْبَوِّسُ

وَالْمُنْبَوِّسَةُ - جڑ سے اکھڑا ہوا

درخت جہ - اَنَابَشُ

اَنَابَشُ الْعَصَلُ - جھگی پانڈی جڑیں

نَبَصَ (رہن) نَبَصًا - نَبَصًا - اَلْمَجْلِسُ - بولنا

اس کا استعمال نفی میں زائد ہے جیسے

اَلشَّعْرُ بِالْاَكْهِرَ -

نَبَصَ (رہن) نَبِصًا - اَلطَّرُفُ - پرندہ

کا آہستہ سے چوں چوں کرنا۔

النَّبِصُ - مصربے شرم جلدی سے لگائی

ہونی ضرب۔

النَّبِصَةُ - کلمہ

نَبَضَ (رہن) نَبَضًا و نَبَضًا -

اَلْعَرَقُ - رگ کا تڑپنا حرکت کرنا۔

نَبَضَتِ الْاَعْمَامُ - انٹوں کا

مصنطرب ہونا - نَبَضَ الْبَوِّسُ

بجلی کا بجکے سے چمکانا (نَبَضًا) الشَّعْرُ

بال اکھیرنا۔

نَبَضَ (رہن) نَبَوَّصًا - الماء - پانی

کا بہنا یا جذب ہونا۔

نَبَضَ فِي الْقَوَاسِ وَاَنْبَضَ الْقَوَاسُ

وَعَيْنُ الْقَوَاسِ فِي الْقَوَاسِ -

آواز بکھنے کے لئے کان کی تانت

کو کھینچنا۔

النَّبَضُ وَالنَّبَضُ دَلَّ اَوْ شَرَّيَان

کی حرکت و تڑپ جس سے بدن کی

صحت و بیماری کا پتہ لگایا جاتا ہے

جہ اَنْبَاضُ - اَلنَّبِضَةُ -

نبض کی ایک ضرب۔

فَوَّادٌ نَبَضٌ و نَبَضٌ و نَبَضٌ -

ہوشیار - دل جوش والا دل۔

ن

النَّابِضُ - فابتر انداز - پٹھا - نَبَضَ
نَابِضُهُ اس کا غصہ بھڑک گیا -
النَّبْضُ - وہ جگہ جہاں طبیب ہاتھ
رکھ کر نبض کی حالت دریافت کرتا
ہے ج مَنَابِضُ -

نَبَطَ رَن (ض) نَبَطًا وَنَبُوطًا - اَلْمَاءُ
پانی کا پھوٹ نکلا -

نَبَطَ رَن (ض) نَبَطًا وَنَبَطًا وَنَبَطًا
وَتَنَبَطَ وَاسْتَنَبَطَ - اَلْبُؤْسُ
کنویں سے پانی نکالنا - نَبَطَ وَ

اَنْبَطَ وَاسْتَنْبَطَ - اَلشَّيْءُ
پوشیدگی کے بعد ظاہر کرنا - اَنْبَطَ
اَلْحُكْمَ - اجتہاد سے نکالنا -

اَنْبَطَ فِيْهِ اَثْرُكَرْنَا - اَسْتَنْبَطُهُ
ایجاد کرنا اَسْتَنْبَطَ اَلْفَقِيْهَةُ
فقیہ کا اپنی فہم سے کوئی بات نکالنا

اَسْتَنْبَطَ اَلْعَدُوْبَ - بربطی ہونا
تَنَبَّطَ - بربطیوں کے مشابہ ہونا یا اُن
کی طرف منسوب ہونا -

اَنْتَبَطَ - اَلْكَلَامُ - اپنے اجتہاد
سے بات نکالنا -

النَّبَطُ - کنویں کا پہلا پانی "فُلَانٌ قَرِيْبُ
اَلشَّرِّ بَعِيْدُ النَّبَطِ" یہ اس کے
لئے کہا جاتا ہے جو وعدہ کرے مگر انفا

نہ کرے - ج: اَنْبَطًا وَنَبُوطًا
آدمی کی اندرونی حالت - کہتے ہیں
لَا يُدْرِكُ نَبْطُهُ اس کی اندرونی

حالت اور اس کے علم کی تہ نہیں ملتی
گھوڑے کی بغل اور پیٹ کی

سفیدی
اَلذَّبِطُ - غمخوار لوگ عجیبی لوگ جو
عراقین کے درمیان آباد ہوئے
تھے ج اَنْبَاطٌ وَنَبِيطٌ -

نَبِطٌ وَنَبَاطٌ - منسوب بہربط -
کلمہ نَبِطِيَّةٌ - عام کلمہ -

اَلْاَنْبَطُ - مِنَ اَلخَيْلِ - وہ گھوڑا جس
کے پیٹ اور بغل کے نیچے سفیدی
ہو - مؤنث نَبْطَاءٌ ج نَبِطٌ -

نَبَعَ (ن) وَنَبَعَ (س) وَنَبَعَ (ر)
نَبَعًا وَنَبُوعًا وَنَبَعًا نَا - اَلْمَاءُ
پانی کا پھوٹ اُتھوڑا نکالنا -

النَّبْعُ - مصر - ایک قسم کا درخت
جس سے تیرکمان بنائے جاتے
ہیں - قَرَعُوا النَّبْعَ بِالنَّبْعِ

انھوں نے ایک دوسرے سے نیزہ
بازی کی "مَا رَأَيْتُ اَصْلَبَ
مِنْهُ نَبْعًا" میں نے اس سے

زیادہ سخت کسی کو نہیں دیکھا - پالی
کا چشمہ جس شخص میں جودت رائے
ہو اُس کے لئے کہتے ہیں كُوْا اَقْدَمَ

بِالنَّبْعِ اَكْذَرَى نَارًا -
النَّبْعَةُ - اَنْبَعُ کا واحد - کمان
کو بھی کہتے ہیں - اصلیت - ہو

مِنْ تَبَعَةٍ كَرِيْمَةٍ - وہ شریف
الاصل ہے -

النَّبَاعَةُ - مؤنث النَابِعُ ج:
کواہ - کواہِ الْبَعِيْرِ -
ادب کے سپینہ والے اعضاء

النَّبِيعُ - پسینہ -
النَّبَاعَةُ - چوڑے بچہ کی زم چڑیا یا
تا لو سخت ہونے پر اس کا نام

"يَا فَوْخُ" ہوتا ہے -
اَلنَّبِيعُ - چشمہ - ج مَنَابِيعُ -
اَلْيَبُوعُ - چشمہ - بہت پانی والا

نالا - ندی ج يَبِيعُ -
نَبَعَ - (ف ن ص) نَبَعًا وَنَبُوعًا
- اَلشَّيْءُ نَبَعَ - ظاہر ہونا -

اَلْمَاءُ پانی کا چشمہ سے نکلا -
اَلْوَعَاءُ بِالذَّقِيقِ چھنا -
اَلشَّرُّ پھسلنا - ظاہر ہونا -

اَلْمَكَانُ - جگہ کا بلند ہونا -

رَأْسُهُ سِرِّسِمْ بھوسا ہونا - اَلرَّجُلُ
اچھے شعر کہنا - فِي اَلْعِلْمِ وَغَيْرِهِ
فائز ہونا - فِي الدُّنْيَا - آسائش کی

زندگی گزارنا -
اَنْبَعَ - اَلْبَكَدُ - شہر میں بہت آنا جانا -
- اَلنَّاعِلُ - آٹا چھانا -

النَّبْعُ وَالنَّبَاعُ - چل کا غبار
نَبْعَةُ الْقَوْمِ - قوم کے برگزیدہ لوگ
النَّبَاعَةُ - ج نَوَابِغُ - فصیح خوش بیان

بڑی شان والا -
النَّوَابِغُ - اَلْمَشْهُورُ شَاعِرُوں کا لقب
نسبت کے لئے نَابِغٌ -

النَّبَاعَةُ - کلمہ فصیح
النَّبِيعُ - بڑی شان والا ج نَبِيعًا
النَّبَاعُ وَالنَّبَاعُ وَالنَّبَاعَةُ

وَالنَّبَاعَةُ - آٹا - سر کی بھوسا
نَبَقَ - (ن) نَبَقًا - اَلشَّيْءُ نَبَقَ - نکلا -
ظاہر ہونا - اَلرَّجُلُ نَبَقَ - نکلا -

نَبَقَ - اَلشَّيْءُ اَوِ الْمَرْجُلُ نَبَقَ -
اَلْكِتَابُ - کتاب پر ترتیب دار
کیرس کھینچنا - اَلشَّجَرُ وَخَشَوْنَ

کو ترتیب وار لگانا - اَلنَّحْلُ
خراب ہونا اور کھجوروں کا پیروں
کی طرح چھوٹا ہونا -

نَبَقَ وَنَبَقَ وَنَبَقَ - وادی میں
ایک قطار پودا لگانا -
اَسْتَبَقَ اَلْكَلَامَ - کلام نکلوانا -

اَلنَّبَقُ - مصر میں پٹھا آٹا جو کھجور کے
گودے سے بنایا جاتا ہے -
اَلنَّبَقُ وَالنَّبَقُ وَالنَّبَقُ وَ

النَّبَقُ - بیری کا پھل واحد نَبَقَةٌ
النَّبَقَةُ - انگوڑے خوشے نکلنے کی جگہ
میں گرہ - ج نَبَاقٌ -

نَبَكَ (ن) نَبُوكَا وَ اَنْبَكَ -
اَلْمَكَانُ - جگہ کا بلند ہونا -

اَلْمَكَانُ - جگہ کا بلند ہونا -

واقف کرنا۔ آگاہ کرنا۔ نَبَّہ
یا سَمَّہ اس نے اُس کے نام کو مشہور
کیا۔

اَنْبَا۔ الحاجۃ۔ بھول جانا۔
مِنَ النُّومِ۔ جگانا۔

تَنْبِہًا۔ مِّنْ کَوَیْمٍ نَّیْمٍ سے بیدار ہونا
نَ عَلٰی اَوَّلِ الْاَمْرِ۔ واقف ہونا بھٹنا۔

اِسْتَنْبَہ۔ مِّنْ کَوَیْمٍ۔ بیدار ہونا۔

النَّبَہُ۔ دانائی۔ سمجھ۔

النَّبَہ۔ مصر۔ کھوئی ہوئی چیز جو بغیر
تلاش کے مل جائے۔ موجودہ چیز مشہور

النَّبَاهَةُ۔ شرافت۔ سمجھ۔ شہرت۔

النَّبَہُ وَالنَّبَہُ وَالنَّبَہُ وَالنَّبَہُ

شریف۔ سمجھ دار۔ شرافت والا

شہرت والا جو بہت اُمر و نایہ

بڑا کام۔

النَّبَاہ۔ بلند۔ نمایاں۔

اَلْمَنْبَہَہ۔ یاد کرانے کا ذریعہ

نَبَا یَنْبُو نَبُوۃً وَنَبُوۃً وَنَبُوۃً

نَبُوۃً۔ نظر دھندلی ہونا۔ صفت

(ناب) الشیء۔ دُور ہونا پیچھے ہونا

اپنی جگہ قرار نہ پکڑنا (نَبُوۃً وَنَبُوۃً)

السَّیْفُ عَنِ الصُّرُوبِ۔ مضروب

سے تلوار کا اُچٹ جانا اور کاٹ نہ

کرنا۔ جَنْبَہُ عَنِ الْفَرَاہِ

بستر پر بے چین رہے آرام ہونا۔

اَلسَّہْمُ عَنِ الْهَدَیْتِ تیر کا نشانہ

سے چوک جانا۔ اَلطَّبَعُ عَنِ الشَّیْءِ

نفرت کرنا۔ عَنِ الشَّیْءِ زَالٍ ہونا

بِیْ خِلَافٍ۔ ظلم کرنا۔ کہتے ہیں۔

کَبِیتَ بِنِیْ مِیْلَکَ الْاَرْضِ "مجھے یہ

زمین موافق نہ ہوئی۔ اَلْمَکَانَ نِیْلَانَ

کسی جگہ کا موافق نہ آنا۔ عَلَیْہِ الْاَمْرُ

ادوا الصَّاحِبِ کھرانہ ہونا۔ صاف

نہ ہونا۔

نَبْلُ الدَّمْرِ حوادثِ زمانہ
النَّبْل۔ زکاوت۔ سنجاب۔ شرافت،

فضیلت۔ کمال جسم۔

النَّبْلُ وَالنَّبْلُ۔ بڑے یا چھوٹے

پتھر۔ واحد نَبْلَہُ وَنَبْلَہُ

رَجُلٌ نَبْلٌ۔ شریف آدمی مَوْنَتِ

نَبْلَہُ۔

النَّبْلَہُ۔ عطیہ۔ ثواب و جزا۔ چھوٹا

لُغْمَہُ۔ مَبْدَہُ کُلِّ شَیْءٍ۔ ہر شے

کا عمدہ حصہ۔ ج نَبْلَاتِ

النَّبَالِہُ۔ مصر۔ زکاوت۔ سنجاب و

شرافت۔ فضیلت۔

النَّبَالِہُ۔ تیر سازی

النَّبَالِہُ۔ تیری

النَّبْلُ وَالنَّبْلُ۔ صاحب سنجاب

و فضیلت۔ اَلنَّبْلُ۔ بڑے جسم

والا۔ ج نَبَالِ

النَّبْلَہُ۔ مردار۔ ج نَبَالِ

النَّبَالِ ج نَبْلٌ وَنَبْلٌ وَالنَّبَالِ

ج نَبَالِہُ۔ تیر والا۔ تیر ساز۔

تیر انداز۔ ماہر تیر انداز۔ جب کوئی

معاملہ بڑھو جائے تو کہتے ہیں۔

اِخْتَلَطَ الْحَابِلُ بِالنَّابِلِ۔

اَلْاَنْبِلُ۔ تیر اندازی میں زیادہ ماہر

اَلنَّبَالِ وَالنَّبَالِہُ۔ بہت قد۔

سُست۔

نَبَہُ (د) نَبَہُ (د)۔ نَبَہُ (د)۔ سمجھ جانا۔

نَبَہُ (د)۔ مَبَہُ (د)۔ مَبَہُ (د)۔

جاگنا۔

نَبَہُ (د) وَنَبَہُ (د) وَنَبَہُ (د)

نَبَاہَہُ شریف ہونا۔ مشہور ہونا

صفت (ناب) وَنَبَہُ وَنَبَہُ

وَ نَبَہُ (د)۔

نَبَہُ (د)۔ مَبَہُ (د)۔ نَبَہُ (د)۔ جگانا۔

بیدار کرنا۔ عَ عَلٰی اَوَّلِ الْاَمْرِ۔

النَّبَالِہُ۔ بلند جگہ۔ ج۔ نَوَابِہُ
النَّبَالِہُ وَالنَّبَالِہُ۔ چوٹی دار ٹیلہ

یا چھوٹا ٹیلہ ج نَبَالِہُ وَنَبَالِہُ

نَبَالِہُ وَنَبَالِہُ۔ النَّبَالِہُ۔

درخت کی جڑ۔

نَبْلٌ (د) نَبْلٌ۔ الرَّجُلُ۔ تیر مارنا۔

یا تیر دینا۔ بِالطَّحَامِ۔ تھوڑا تھوڑا

دے کر بھلانا۔ مَشْغُولٌ رُکْنَا۔

الرَّجُلُ۔ آدمی کا تیر چلنا۔ اَلْاَبِلُ

اَوْنٌ کو تیر۔ ہانکنا۔ ع شرافت و

سنجاب میں غالب آنا۔ یہ نرمی

برتنا۔ عَلٰی الْقَوْمِ۔ تیر چلنا۔

نَبْلٌ (د) نَبَالِہُ۔ شریف و سنجاب ہونا

صفت نَبْلٌ وَنَبْلٌ۔ مَوْنَتِ

نَبْلَہُ وَنَبْلَہُ۔ ج نَبَالِ و

نَبَالِہُ وَنَبَالِہُ وَنَبَالِہُ

نَبْلٌ۔ الرَّجُلُ۔ تیر دینا۔

اَنْبَالِہُ۔ تیر دینا۔ اَنْبَالِہُ اَلْقَدَاحِ

خواب موٹے تیرنا۔ اَلنَّخْلُ بِکِی

ہوئی کھجوروں والی ہونا۔

نَابِہُ مَبَاہِہُ۔ شرافت و سنجاب میں

غالب آنا۔

تَنْبِلٌ۔ سمجھ دار ہونا۔ صاحب شرافت

ہونا۔ مَرَجَانَا۔ شرف کے مانند بننا۔

حادثہ کا بڑا ہونا

تَنَابُلٌ۔ الْقَوْمُ؛ ایک دوسرے سے

تیر اندازی یا تیر بنانے میں مقابلہ کرنا۔

اَنْتَبَلٌ۔ مَرَجَانَا۔ قُلَانَا۔ قتل کرنا۔

اَلنَّخْلُہُ۔ حادثہ کا بڑا ہونا۔

لَا مَرَاہَہُ ہونا۔ تیر مارنا۔ الشَّیْءُ بِکِی

بیک بھرتی سے اُٹھ لینا۔

اِسْتَنْبَلٌ۔ تیر مارنا۔ مال سے عمدہ حصہ

لینا۔

النَّبْلُ۔ مصر۔ تیر۔ واحد نَبْلَہُ ج:

نَبَالِہُ وَنَبَالِہُ وَنَبَالِہُ۔

النَّبِيُّ - السَّيِّئُ - تَلَوَّا رُكُودًا -
 السُّبُوءَةُ - مَم - بَيِّنَةُ الزَّمَانِ زَمَانِ
 کی سختی (والتَّبَاوُدُّ) بلند زمین
 التَّبَاوُدُّ - شرافت و ریاست کی
 طلب - آگے بڑھنا -
 التَّبَاوُدُّ - بلندی -
 التَّبَاوُدُّ - چوکے والی تلوار یا تیر مڑا
 کڑائی میں پشت دینے والا -
 التَّبَاوُدُّ - مؤنث التَّبَاوُدُّ - کسی ہوئی
 کمان -
 تَنَتَّ (مَنْ) تَنَتَّ - الْقِدْرُ - ہانڈی کا
 اُبلنا -
 تَنَتَّ (مَنْ) تَنَتَّ وَ تَنَتَّ - مُنْتَهَى
 غصہ سے تنھنے پھیلنا -
 تَنَتَّ - الْخَبَرُ - خبر بیان کرنا -
 تَنَتَّ - الرَّجُلُ - صفائی کے بعد
 گندہ ہونا -
 التَّنَتُّ - چھوٹا سا گردہ حاضریں پانی
 جمع ہو -
 تَنَتَّ (مَنْ) تَنَتَّ وَ تَنَتَّ - الشَّيْءُ - اپنی
 جگہ سے ہٹنا مگر جدا نہ ہونا - بلند
 ہونا - پھولنا - الْفَرْخَةُ - زخم کا
 متورم ہونا - الشَّيْءُ - بتاؤں
 کا اُبھرنا - الْبَحَارِيَّةُ - روٹی کا
 بالغ ہونا - عَلَى الْقَوْمِ - ظاہر ہونا -
 التَّنَتُّ - مقابلہ کرنا - بلند ہونا -
 التَّنَتُّ - فَا - ہر اُبھری ہوئی بلند چیز
 التَّنَتُّ - مَم - (والتَّنَتُّ) فیل
 تَنَتَّ (مَنْ) تَنَتَّ - الْكَاخِصُ مِنْ
 انہما تَم - جانور کے چنے میں اُس کی
 غیر گمیری کرنا - صفت (ناتجہ)
 جانور (مَنْ تَنَتَّ) بچہ کیتھ
 تَنَتَّ - الشَّيْءُ مِنْ الشَّيْءِ تَنَتَّ
 نکلنا -
 تَنَتَّ وَ تَنَتَّ تَنَتَّ وَ تَنَتَّ

الْبَهِيمَةُ وَلَدًا - بچہ جننا -
 التَّنَتُّ - الْوَلَدُ - بچہ کا جننا جانا -
 تَنَتَّ الرَّيْحُ الشَّحَابُ ہوا
 نے بادلی سے بارش برساتی -
 تَنَتَّ الْقَوْمُ - قوم کی مویشی کا جننا
 تَنَتَّ - مَعْنَى تَنَتَّ -
 التَّنَتُّ - الْقَوْمُ - حاملہ واول والا ہونا
 التَّنَتُّ - الْبَهِيمَةُ - چنے کے قریب ہونا
 صفت (تَنَتُّ)
 تَنَتَّ جَمْعُ الْبَهِيمَةِ - چنے کی حالت
 میں ہونا -
 التَّنَتُّ وَ تَنَتَّ - الْإِلْهُ -
 بیہ دنیا - جننا -
 التَّنَتُّ - بچہ جننا - نتیجہ نکالنا -
 التَّنَتُّ - جانوروں کے بچہ چنے کی
 حالت - بِالْمَاءِ تَنَتَّ -
 اور مٹی حاملہ ہے -
 التَّنَتُّ - بچہ - نتیجہ جَمْعُ تَنَتُّ
 - عَنَّمْ فَلَا تَنَتُّ - فلاں
 کی بکریاں ایک ہی عمر کی ہیں -
 التَّنَتُّ - فَا - جنانے والا -
 التَّنَتُّ - چنے کے قریب جانور
 التَّنَتُّ - بچہ چنے کا وقت
 التَّنَتُّ - جانور کی دُور
 تَنَتَّ (مَنْ) تَنَتَّ وَ تَنَتَّ - الْوَلَدُ
 بدن سے پسینہ نکلنا - الدَّسَمُ مِنْ
 الْإِنَاءِ - چمکانے کا برتن سے رستا
 تَنَتَّ الْحَرُّ - گرمی کا پسینہ لانا - پسینہ
 نکالنا -
 التَّنَتُّ - الشَّيْءُ - اکھیرنا
 التَّنَتُّ - مَم - پسینہ -
 التَّنَتُّ - مَم - درخت کا گندہ زَقِّ تَنَتَّ
 رسنے اور پکنے والی مشک -
 التَّنَتُّ - جَمْعُ مَم
 التَّنَتُّ - مَم -
 التَّنَتُّ - مَم -

تَنَتَّ تَنَتَّ (مَنْ) الشَّيْءُ - نکلنا - اکھیرنا
 - تَنَتَّ الْقَلَامُ الْقُرْسُ - دانت
 اکھیرنے والے نے داڑھی اکھیر لی -
 تَنَتَّ الْمُنْبِيَّةُ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِ
 موت نے اس کو قوم میں سے نکال لیا -
 تَنَتَّ الْبَارِئُ بِاللَّحْمِ - باز کا چھینے
 سے گوشت لے لانا - إِلَيْهِ يَبْقَرُ
 دیکھنا - التَّنَتُّ بِاللَّذْهَبِ - سونے
 کے تاروں سے کپڑا بننا - فَلَا تَنَتَّ
 ذیل کرنا - تَنَتَّ وَ تَنَتَّ - بِالْمَكَانِ
 اقامت کرنا -
 التَّنَتُّ - زَمْرُ - مومنا - چٹا -
 تَنَتَّ (مَنْ) تَنَتَّ - الشَّيْءُ - زور سے
 کھینچنا - اُچک لینا - الْفَقْرُ - کمان
 کھینچنا - التَّنَتُّ بِالْأَصَابِعِ أَوْ
 الْأَصْفَرِ - کپڑے کو نگلیں یا دانتوں
 سے پھاڑنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا - الْكَلَامُ
 سخت کلامی کرنا - بِالرَّفْعِ - نیزہ
 زور سے مارتا -
 تَنَتَّ (مَنْ) تَنَتَّ - الشَّيْءُ - خراب ہونا
 ہونا -
 التَّنَتُّ - کھینچنا جانا -
 التَّنَتُّ - مَم - کمزوری - سستی سختی
 التَّنَتُّ - پار گزرنے والی ضرب -
 جَمْعُ تَنَتَّ -
 التَّنَتُّ - جَمْعُ تَنَتَّ - تَنَتَّ
 تَنَتَّ (مَنْ) تَنَتَّ - الشُّوْكَ وَ تَنَتَّ
 کاٹنا وغیرہ نکالنا - الشُّوْكَ -
 بال اکھیرنا - تَنَتَّ - الْجَرَادُ الْأَفْصَحُ
 مڈی کا سبزی کھا جانا - الرَّجُلُ لَيْعًا لِمَ
 اہل و عیال کے لئے کمانا - لَا يَلْعَا
 لائحی مارتا - الْجَرَادُ بِرَجْلِهِ - پتھر
 کو پاؤں سے مٹانا -
 تَنَتَّ (مَنْ) تَنَتَّ وَ تَنَتَّ تَنَتَّ

شتر مرغ کا انداز اوریت میں دبا یا جاتا ہے۔

النَّسَبُ - وسیلہ - قرابت
نَسَبَ رَحْمًا وَنَسَبَ (س) نَسَبًا وَنَسَبَ
(ل) نَسَبًا وَنَسَبًا وَنَسَبًا وَنَسَبًا
بدبودار ہونا صفت (نَسَبًا وَنَسَبًا)
وَمُسْتَنَ وَنَسَبًا - مؤنث کتن
مُسْتَنَ -

نَسَبًا - الشیء - بدبودار کرنا۔

النَّسَبُ - ایک بدبودار درخت۔

النَّسَبُ - بدبودار جہ، مَنَاتِینَ -
النَّسَبُ - بدبودار جگہیں واحد - مَنَاتِینَ
نَسَبًا یَدُورُ نَسَبًا - آغوشوں - حضور کا مہم
ہونا - سوچنا - صفت ناس
النَّسَبُ - انتہائی - پیچھے ہٹنا - شکل
سیرت میں موافق ہونا۔

نَسَبًا - علیہ - حملہ کرنا۔

النَّسَبُ - استنبط - استنبط - پھنسی چھوڑنا
نَسَبًا (من) نَسَبًا وَنَسَبًا - الزَّیْقُ
مشک کا رُسنا - الرَّجُلُ - آدمی کا
موتا پے کی وجہ سے پسینہ دار ہونا۔
النَّسَبُ - ہڈی سے چربی ہٹنا۔

نَسَبًا - القوم - اولاذ - ایک دوسرے
کو خبر تانا۔

النَّسَبُ - نساک دیوار

النَّسَبُ - زخم پر ملنے کا تیل۔

النَّسَبُ - مشک سے بچکا ہوا۔

النَّسَبُ - النِّسَبُ - بات یا راز کو

بہت پھیلانے والا۔

النَّسَبُ - غیبت کرنے والے - واحد

(نات)

النَّسَبُ - اُن کا لکڑا جس کے ساتھ زخم
پر تیل لگایا جاتا ہے - جہ مَنَاتِ د

مَنَاتِ د -

نَسَبًا - نَسَبًا - بظنہ بالسیکن۔

النَّسَبُ - داروہی نوچنے کا شوقین۔

النَّسَبُ - مرجحہ۔

نَسَبًا (من) نَسَبًا - الْجَرَابُ - توشہ

دان جھاڑنا - الجِلْدُ - کھال کھینچنا

النَّسَبُ - بھاڑنا - ہلانا - بلینڈ کرنا۔

بھیلانا - نَسَبًا - نَسَبًا - نَسَبًا

النَّسَبُ - عورت یا اونٹنی کا بہت

اولاد و بچہ والی ہونا - صفت (نات)

وَمَنَاتِ د عوام نَسَبًا وَنَسَبًا

نَسَبًا کو کہتے ہیں۔

نَسَبًا (من) نَسَبًا - مَوَاطِنُ ہونا۔

نَسَبًا (من) نَسَبًا وَنَسَبًا -

النَّسَبُ - داکہا و داکہا

جائزہ کا اپنے سوار کو تھکا دینا۔

النَّسَبُ - توشہ دان جھاڑنا - دوسرے کے

مکان کے سامنے مکان بنانا - بہت

اولاد والی عورت سے شادی کرنا

النَّسَبُ - الشیء - کھینچ جانا - الْجَرَابُ

توشہ دان کا چھوڑنا۔

النَّسَبُ - نا - آگ نکالنے والا - چھپنا

اپنے سوار کو تھکانے والا جانور۔

نَسَبًا (من) نَسَبًا - الشیء - آگے کی

طرف کھینچنا - فَلَانًا - جبر کرنا۔

الْجَرَابُ - تھیلہ کو جھاڑنا - خالی

کرنا - نَسَبًا وَنَسَبًا - نَسَبًا

من بین اصحابہ - ساتھیوں سے آگے

بڑھ جانا۔

النَّسَبُ - سبقت کرنا۔

نَسَبًا - النِّسَبُ - نباتات کا گنجان

ہونا - اور بعض کا بعض سے بڑا ہونا

النَّسَبُ - من بین اصحابہ پیش قدمی

کرنا - لَافِظِ کام کے لئے تیار ہونا

النَّسَبُ - عَلَى الْهَاءِ - پانی پر پیلے

پہنچنا۔

النَّسَبُ - النِّسَبُ - پانی سے بھرا ہوا

الرَّجُلُ - بدگرائی کرنا۔

النَّسَبُ - النِّسَبُ - نبات کا شروع

شروع چھوڑنا - النِّسَبُ - کپڑا

پڑانا ہونا۔

النَّسَبُ - شروع اگا ہوا سبزہ - ناخن

کے جڑ کی سفیدی۔

النَّسَبُ - مرجحہ۔

نَسَبًا تَنَیْسُ الدِّینَ - قرص کا بقیہ۔

نَسَبًا (من) نَسَبًا - الْحَبْلُ - بیماری

سے کھال کا پھیلنا - دار ہونا۔

نَسَبًا (من) نَسَبًا - الْهَاءُ - مین

الْجَرَابُ - الْهَاءُ - الْعَيْنُ -

خون کا زخم سے پانی کا چشمہ سے تھوڑا

نکلا - صفت - ناس -

النَّسَبُ - الرَّجُلُ - بہت پسینہ آنا۔

النَّسَبُ - بہت قے ہونا۔

نَسَبًا (من) الرَّجُلُ - عیب لگانا۔

غیبت کرنا۔

النَّسَبُ - منبہ اڑانا - غیبت کرنا

النَّسَبُ - غیبت کرنے کا عادی۔

نَسَبًا (من) نَسَبًا وَنَسَبًا - النِّسَبُ

النَّسَبُ - النِّسَبُ - النِّسَبُ -

بال و پر وغیرہ کھیرنا - زچنا - نَسَبًا

فی النِّسَبِ - آہستہ کھینچنا۔

النَّسَبُ - الْهَاءُ - گھاس کا کھیرے جانے

کے قابل ہونا۔

النَّسَبُ - النِّسَبُ - نَسَبًا -

النَّسَبُ - النِّسَبُ - بال پر کھیرنا

النَّسَبُ - کھیر دی ہوئی گھاس وغیرہ۔

جہ نَسَبًا -

النَّسَبُ - تھوڑا تھوڑا علم وغیرہ سیکھا

ہوا - سطحی آدمی

النَّسَبُ - النِّسَبُ - کھیرنے سے

گرے ہوئے بال وغیرہ۔

النَّسَبُ - النِّسَبُ - بال کھیرا ہوا

پہٹ بھاڑنا۔ مافی بطنہ۔ اتوں کو خالی کرنا۔
 اسْتَنْجَحَ۔ اَحَدًا لَعَدَا لَيْنِ مَصِيلاً پڑنا
 اَلَسْتَجَ۔ نامبارک بزدل۔
 الْمُسْتَجَّةُ۔ سُرین۔
 نَشَدَ (دس) مُتَوَدِّا۔ الرَّجُلُ مَطْهَرًا
 اَلْكُمَاةُ۔ سانپ کی چھتری کا لگانا۔
 نَشَرَنَ (من) نَشْرًا وَنَشَارًا الشَّيْءُ
 بکھیرنا۔ بھڑکانا۔ نثریں کلام کرنا۔
 اَلدَّرْعُ غَنَدُ۔ زرہ کو اتار دینا
 کہتے ہیں نَشَرَتِ الْمَرْأَةُ بَطْنَهَا
 عورت کے بہت بچے ہوئے۔
 نَشَرَتْ۔ (من) نَشِيرًا۔ السَّادَاتَةُ
 جانور کا چھینکنا۔
 اَنْشَرُ۔ ناک بھاڑنا۔ ہ ناک کے بل
 گھرانہ۔
 نَشَرُ۔ الشَّيْءُ بکھیرنا۔
 تَنْشَرُوْا تَنْشَرُوْا اَنْتُمْ الشَّيْءُ
 بکھیرنا۔ تَنْشَرُوْا الْقَوْمُ۔ قوم کے
 لوگ بیمار ہوئے اور مرے۔
 اَنْتَرُوْا اَسْتَنْشَرُوْا۔ ناک میں پانی ڈال
 کر اس کو بھاڑنا۔
 اَلنَّشْرُ۔ نثر۔ غیر منظوم۔
 اَلنَّشْرَةُ۔ کلام نثر کا ایک ٹکڑا۔
 نَحْنُ اور اس کا گرد۔ چھینک۔
 کشادہ زرہ۔ دونوں طرف موڑنے
 کے درمیان کا گڑھا۔
 اَلنَّشْرُ وَالْمُنْشَرُ وَالنَّشْرَانُ۔
 باتونی۔ راز افشا کرنے والا۔ رَجُلٌ
 نَشْرٌ وَفَوَاقُ نَشْرٌ۔ بہت اولاد
 والا مرد یا بہت اولاد والی عورت۔
 اَلنَّشِيرُ۔ بکھرا ہوا۔
 اَلنَّشَارَةُ وَالنَّشَارُ وَالنَّشَرُ۔ بکھری
 ہوئی چیزیں۔
 اَلنَّشَارُ۔ مصر۔ روپیہ پھیل وغیرہ جو دعوت

یا شادی میں بکھیرا جاتا ہے۔
 اَلنَّاشِرُ۔ فا۔ نثر لکھنے والا۔ یا بولنے والا
 وہ بکھور کا درخت جو کئی بکھویریں گرائے۔
 اَلْمُنْشَرُ۔ مفع۔ ناکارہ۔ مکر۔ ورا آدمی۔
 اَلْمُنْشَارُ۔ بکھور کا درخت جو کئی بکھویریں گرائے
 اَلْمُنْشَرُ۔ مفع۔ مین الکلاہ۔ نثر غیر
 منظوم۔ ایک تیز خوشبو کا پودا۔
 نَشَطُ (ن) نَشَطًا۔ خاموش کرنے کے لئے
 زمین پر دبانہ۔ فَلَانًا۔ بوجھل کرنا۔
 اَلْكُمَاةُ۔ سانپ کی چھتری کا زمین سے
 نکلنا (نَشَطًا وَنَشَوُطًا) ساکن ہونا
 سترار پانا۔
 نَشَطُ۔ خاموش کرنا۔ ٹھنڈا کرنا۔
 آرام دینا۔
 اَنْتَحَ۔ بہت تھے کرنا۔ اَلنَّحْيُ اَوِ الدَّحْمُ
 قے یا خون کا نکلنا۔
 نَشَلَّ (ن) نَشَلًا۔ اَلْفَرْسُ وَكُلُّ ذِي
 حَافِرٍ۔ سم والے جانور کا لید کرنا۔
 نَشَلَّ (ن) نَشَلًا۔ اَلْبَيْتُ
 کنیز سے مٹی نکلنا۔ اَلْجَوَابُ
 توشہ دان بھاڑنا۔ خالی کرنا۔
 اَلْكَنَانَةُ۔ ترکش کتیروں سے خالی کرنا
 اور بکھیرنا۔ نَشَلَّ الدَّرْعُ عَنْهُ۔ زرہ
 کو اتارنا۔ پھینکنا۔ اَللَّحْمُ فِي الْفَيْدِ
 گوشت کو کھڑے کھڑے کر کے ہانڈی
 میں ڈالنا۔ عَلٰی فُلَانٍ دِرْعًا۔ زرہ
 پہنانا۔
 اَنْشَلَّ۔ اَلْبَيْتُ۔ کنیز کی مٹی نکلنا۔
 تَنْشَلَّ الْقَوْمُ۔ اکٹھے ٹوٹ پڑنا
 اَسْتَنْشَلَّ۔ اَلْكَنَانَةُ۔ ترکش سے تیروں
 کو نکال کر بکھیرنا۔
 اَلنَّشَلُ۔ بکھودا ہوا۔
 اَلنَّشَلَةُ۔ کشادہ زرہ۔ مرنچوں کے
 درمیان کا گڑھا۔
 اَلنَّشِيلُ۔ لید۔

اَلنَّشَالَةُ وَالنَّشِيْلَةُ۔ کنیز سے نکالی
 ہوئی مٹی۔ بقیہ۔ موطا گوشت۔
 اَلْمُنْتَلَةُ۔ زنبیل۔
 نَشَمَ (من) نَشْمًا وَ اَنْتَشَمَ۔ فُحْشُ بَنَاتِ
 نَشَا يَنْتَشُوْنَ نَشْوًا۔ اَلْحَدِيثُ۔ بات
 پھیلانا۔ الشَّيْءُ مَتَفَرِّقٌ کرنا۔
 فَرَّقْنَا۔ غیبت کرنا۔ عَلِيْدُ الْقَوْلِ
 کسی کی طرف سے بات کی خبر دینا۔
 تَنَاقَى۔ اَلْقَوْمُ اَلْحَدِيثُ۔ ایک دوسرے
 کو بات یاد کرنا۔
 اَلنَّاقِيُ۔ فا۔ غیبت کرنے والا۔
 اَلنَّشْوَةُ۔ لوگوں کی عیب جوئی۔
 اَلنَّشَا۔ کسی کے بارے میں اچھی یا بُری
 خبر۔
 نَشَى يَنْشِيْ نَشْيًا۔ اَلْخَبَرُ۔ خبر بیان کرنا
 پھیلانا۔
 اَنْشَى۔ مِّنَ الشَّيْءِ۔ ناک چڑھانا۔
 فَلَانًا۔ غیبت کرنا۔
 نَجَّ (من) نَجًّا۔ الشَّيْءُ مِّنْ فَيْدٍ۔
 منہ سے پھینکنا۔
 نَجَّاهُ (ن) نَجَاءً وَتَجَّاهُ وَتَجَّاهُ
 نظر بد لگانا۔ رَجُلٌ نَجَّاهُ اَلْعَيْنُ وَ
 وَنَجَّاهُ وَهَآ وَنَجَّاهُ وَنَجَّاهُ
 نظریہ بہت لگانے والا۔
 نَجَّاهُ۔ اَلسَّائِلُ۔ درویش کی کھانے کی
 طرف بہت بھجائی ہوئی نظر۔
 نَجَّبَ (ن) نَجَابَةً۔ اَلْوَلَدُ
 شریف الاصل ہونا۔ اچھے صفات والا
 ہونا۔ صفت (نَجِيْبٌ)
 نَجَّبَ (من) نَجًّا وَنَجَّبَ وَ
 اَنْتَجَبَ۔ اَلشَّجَرَةُ۔ درخت
 کی چھال اتارنا۔ وَ اَنْتَجَبَ الشَّيْءُ
 پینا پسند کرنا۔
 اَنْجَبَ۔ مَعْنٰی نَجَّبَ۔ اَلرَّجُلُ شَرِيفٌ
 اولاد کا باپ ہونا۔



اِسْتَنْجَبَ - النَجْبُ وَاللُّجْبَةُ - سخی - شریف النَجْبُ مِنَ الشَّجَرِ - درخت یا جوڑ کی چھال۔

النَّجَابَةُ - خاندانی شرافت - نیاسی النَجِيبُ - شریف - شریف خاندان جہ آنجای و نَجَباً و نَجَباً مَوْنُثٌ نَجِيبٌ وَ نَجِيبَةٌ - جہ نَجَابَتٌ -

نَجَابَتٌ وَ نَجَابَةٌ - عمدہ حصے خالص حصے۔

النَّجَابُ رَمَزٌ مَوْنُثٌ جہ مَنَاجِيبُ - وَ الْمُنَجِّبُ جہ مَنَاجِيبُ - مَوْنُثٌ مُنَجِّبَةٌ - شریف بیٹوں والا۔ نَجَبَتْ رَنَ نَجَبًا وَ تَنَجَّبَتْ رَعْنَ الْأَقْرَبُ - نکتہ چینی کرنا۔ بچ کرنا۔ الشیءَ کَلَانًا نَجَبَتْ الْقَوْمُ - قوم سے فریاد کرنا تَنَجَّبَتْ الْقَوْمُ الْأَخْبَارَ - ایک مدرسے سے اُنشَاءً راز کرنا۔

اِسْتَنْجَبْتُ وَ اِسْتَنْجَبْتُ الشَّيْءَ - لگانا اِسْتَنْجَبْتُ لِلشَّيْءِ - درپے ہونا۔ النَجَبُ وَ اللُّجْبَةُ - دل کے اوپر کی ہتھی زہ - جہ آنجبات - رَجُلٌ نَجَبٌ - خردوں کی جستجو رکھنے والا۔ اَلنَّجَاتُ - امور کی بہت چھان بین کرنی والا۔ اَلنَّجِيثُ - پرشیدہ بھید - نشانہ بست رفتار۔

اَلنَّجِيثَةُ - بڑی خبر جو ظاہر ہو جائے۔ نَجَحَ رَفَ نَجَحًا وَ نَجَحًا وَ نَجَحًا - اَلْأَمْرُ - آسان ہونا۔ سہل ہونا۔ کام پورا ہونا۔ کامیاب ہونا۔

نَجَحَ - کامیاب بنانا۔ اَنْجَحَ - کامیاب بنانا یا ہونا۔ اَللَّهُ حَاجَةً - حاجت پوری کرنا۔ اَنْجَحَ حَاجَتَهُ - حاجت پوری

ہونا صفت مُنَجِّحٌ (ج) مَنَاجِيبُ وَ مَنَاجِيبٌ - اَنْجَحَ (ب) غالب آنا تَنَجَّجَ الْحَاجَةُ - وعدہ کرنے والے سے حاجت روائی کا تقاضا کرنا۔

تَنَاجَجَتْ - عَلَيْهِ اَحْلَامُهُ اَوْ مَسَاعِيْرُهُ - کوششوں یا خوابوں کا براہِ راست نکلنا اِسْتَنْجَحَ - مُلَانًا حَاجَتَهُ - کسی سے قصلے حاجت کا سوال کرنا۔

اَلنَّجَاحُ وَ الزُّجُجُ - کامیابی النَجَاحَةُ - صبر اَلنَّجَاحُ - فَا - سَبْرٌ نَاجِحٌ - تیز چال۔ الزُّجُجُ - صاحبِ الرائے صبر والا۔ مَوْنُثٌ نَجِيبَةٌ -

نَجَحَ رَفَ نَجَحًا - فخر کرنا۔ التَّوَدُّ - نَجَحَ كَاجُوشٍ مِیْنِ اَنَا - السَّيْلُ بِيك سیک اُمْنًا اَنَا - اَلْبُعْدُ - اَدْنٰی کا بد مصنیٰ والا ہونا۔ صفت - نَجَحَ اَلْبَدْنُ - کڑواں کھودنا۔

تَنَاجَجَ - اَلْمَوْجُجُ - موج کا ایک دوسرے سے ٹکراتا۔ تَنَاجَجًا - آپس میں ٹکرتے ہوئے۔

اَلنَّجَاحُ - فَا - کھانے والا۔ اِسْمَدُ كَاثِلُ اَلنَّجَاحُ وَ اَلنَّجُوحُ - شور کرنے والا۔ اِسْمَدُ سَيْلٌ نَاجِحٌ - بہت تیز بہنے والا سیلاب جو زمین کو کھود ڈالے۔ نَاجِحَةُ الْمَاءِ وَ نَجِيبَةُ - پانی کی آواز۔

اَلنَّجَاحُ - کھانے والے کی آواز نَجَاحَاتُ الْمَاءِ - پانی کی بوجھاریں نَجَدَ (د) نَجَدًا - مد کرنا۔ غالب آنا نَجَدَ (د) نَجَدًا - اَلْأَمْرُ ظَاهِرٌ ہونا۔ واضح ہونا۔ اَلْبَدَنُ عَرَقًا - بدن سے پسینہ بہہ پڑنا۔ اَلشَّيْءُ مِنَ الْأَرْضِ نَكَلًا - نَجَدَ (د) نَجَدًا - اگرچہ کسی کو کام

یا گھبراہٹ سے پسینہ آنا۔ صفت (نَجَدَ) تھکنا۔ کند ذہن ہونا۔ نَجَدَ نَجَدًا - الرَّجُلُ غَمٌّ لَیْنٌ ہونا۔ صفت (مَنْجُودٌ وَ نَجِیدٌ) نَجَدَ (د) نَجَدًا وَ نَجَدًا - بہادر ہونا۔ دوسروں سے جہاں مورہ ہو سکیں اُن کو کر گزرتا۔ (د) - مَنْجُودًا ظاہر ہونا۔ واضح ہونا۔ صفت نَاجِدٌ وَ نَجِدٌ -

نَجَدَ - اَلْبَيْتُ - گھر کو زینت دینا۔ اَلنَّجَادُ اَلْقَرَشِيُّ - فرش ساد کا فرش کو درست کرنا۔ سینا۔ اَلدَّهْرُ فُلَانًا - زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنانا۔ اَلدَّجَلُ - دوزخ نَاجِدًا - مُنَاجِدًا - مدد دینا۔ لِرَأٰی کے واسطے نکلنا۔ مقابلہ کرنا۔

اَنْجَدَ - مدد دینا۔ ملک نجد کو جانا یا نجد میں پہنچنا۔ رَجُلٌ سَیِّئٌ ہونا۔ عمارت کا بلند ہونا۔ آسمان کا صاف ہونا۔ دعوت قبول کرنا۔

تَنَجَّدَ - اَلشَّيْءُ - بلند ہونا۔ اِسْتَنْجَدَ - بہادر ہونا۔ فُلَانًا وَ یَہ - علیہ۔ ڈرنے کے بعد کسی پر یور ہونا۔

نَجَدَ - مع ملک نجد النَجْدُ - جہ اَنْجَدَ وَ مَنْجُودٌ وَ اَنْجَدَ وَ اَنْجَدَ - بلند زمین کہتے ہیں ہوا۔ طَلَاَعَ اَنْجَدَ وَ اَنْجَدَ وَ نَجَادَ وَ طَلَاَعَ اَلنَّجَادَ - کاموں کا منتظم اور مشکلات کو اچھی طرح سر کرنے والا۔ جہ - نَجَادٌ وَ مَنْجُودٌ - گھر کو آرائش و زیبائش دینے والی اشیاء مثلاً فرش دریاں، کھیتے وغیرہ۔ اَلنَّجْدُ - ماہر، راستہ۔ درختوں سے خالی زمین، غم و غیبتی پستان۔ بلند راستہ۔ رَجُلٌ نَجْدٌ وَ نَجْدٌ - بہادر۔ کھن کا مرن کو کر گزرنے والا، دعوت کو جلد قبول کر لینا

ج۔ آنجاد

النَّجَادُ - پسینہ، گھر کا سامان ج۔ آنجاد

النَّجْدَةُ - مصر، دلیبری طاقت، لڑائی

گھبراہٹ ج۔ نجدات

النَّجَادُ - تلواریں کا پتلا - طویل النجاد

لمبے قد والا آدمی

النَّجَادَةُ - فرش سازی کا پیشہ - دری

بانی

النَّجِيدُ - بہادر، مشکل کاموں کو سر کرنے والا

شیر، نمکین ج۔ نجد ونجداء

النَّجِيدُ - نا، مؤنث ناجیدہ ج۔

نواجد

النَّجَادُ - فرش ساز

نَجُودٌ - البیت - مکان کی آرائش کے

لئے دیواروں کے پردے

النَّجُودُ - لمبی گردن والا، چپے میں آگے

رہنے والا، زیرک عورت

النَّجُودُ - شراب، شراب کا برتن،

خون، زعفران ج۔ نواجد

النَّجِيدُ - موتیوں اور سونے کی مالا

چھوٹا ہاتھ ج۔ متاجید

النَّجِيدُ - اون وغیرہ دھننے کی کڑی

کا آواز - جانور کو ہانکنے کی لاشی

ج۔ متاجید - رَجُلٌ مِّنْجَادٌ -

بہت مدد کرنے والا آدمی

النَّجُودُ - غمزدہ - ہلاک ہونے والا

نَجْدَةٌ (ف) نَجْدٌ - داڑھوں

سے کاٹنا - اصرار کرنا

نَجْدٌ - تجربہ کرنا - آزمانا

نَجْدَةُ التَّجَارِبِ - تجربہ کار بنانا

- البلاء کیا - مبتلائے مصائب ہونا

النَّاجِدُ - فاج تو اجد - وارث

کتنے میں عصی علیٰ ناجدہ وہ

بالغ ہو گیا - ضلک کتنی سبب

تو اجد کا - وہ بہت ہیں

أَبْدَتِ الْحَرْبُ نَاجِدِيهَا - لڑائی

تیز ہو گئی - عَصَى الرَّجُلِ مَعَى نَاجِدِيهَا

اُس نے صبر کیا

الْمَنَاجِدُ ج۔ مُجَدُّ - بھیجیں

نَجْدَ (ن) نَجْدًا - النِّيمُ: دن کا گرم

ہونا - الماء: پانی کا گرم پتھروں سے

گرم ہونا - الرَّجُلُ: کسی کو مار کر مٹانا

الْحَنِيئَةُ - کڑی کو چھینا اور ہموار کرنا

الشيء: ارادہ کرتا - أَلْبَلُ

اونٹ کو ہانکنا

نَجْرَ - (س) نَجْرًا - سخت پیاس لگنا

أَنْجَرَ - فَلَانَا - دودھ دالے کا بنا ہوا

کھانا کھانا

النَّجْوُ - اصل حسب - رنگ گرمی

النَّجْوُ - سخت نہ بچنے والی پیاس

النَّاجِزُ - گرمیوں کے مہینوں میں سے ہر

ایک مہینہ

النَّجَارُ وَالنَّجَارُ - اصل حسب رنگ

النَّجَارَةُ - بڑھئی کا پیشہ

النَّجَارَةُ - کڑی کی چھین

النَّجَارُ - بڑھئی

النَّجِيرَةُ - کڑی کی چھت - دودھ دالے

اور گھی سے بنا ہوا کھانا گرم تھیرے

گرم کیا ہوا پانی جَزَاءُ -

النَّجْرَانُ - دروازہ کی چول - پیاسا زمین

کا ایک ضلع - نجد ونجری - سخت پیاسا

الْأَنْجَرُ وَالْأَنْجَرَةُ - کشتی یا جہاز کا لنگر

ج۔ آنجاد

الْمَنْجَرُ - مقصد جو راستہ سے بٹا ہوا نہ ہو

الْمَنْجَرَةُ - پانی کو گرم کرنے کے لئے گرم تھیر

الْمَنْجَرُ - اونٹوں کو بہت تیز ہانکنے والا

رندہ

الْمَنْجُورُ - مفعول کنویں سے پانی نکالنے کی چرخی

نَجْدَ (ن) نَجْدًا - الْحَاجَةُ حاجت

پوری کرنا - بالوعدہ - وعدے میں

- أَلْوَعْدُ - حاضر ہونا - جلدی ہونا

پورا ہونا

نَجَزَ وَنَجَزَ (س) ختم ہونا - فنا ہونا

- أَلْكَلَامُ: کلام کا منقطع ہونا

نَجَزَ - الْحَاجَةُ - حاجت پوری کرنا

أَنْجَزَ - الْحَاجَةُ - حاجت پوری کرنا

- الْوَعْدُ - وعدہ وفا کرنا

- عَلَى الْقَتِيلِ - مقتول کا کام تمام کرنا

نَاجَزَةٌ - مقابلہ پر نکلنا - لڑائی کرنا

تَنْجَزُ - الشَّرَابُ - پیسے میں اصرار کرنا

(وَأَسْتَنْجَزُ) الْحَاجَةُ أَوْ

الْوَعْدُ - حاجت روائی یا وعدہ وفا

چاہنا

تَنَّا جَزْدًا - آپس میں رونا جھگڑنا

مقابلہ کرنا

النَّجَزُ وَالنَّجَزُ - حصول ہونا، عہد

هُوَ عَلَى تَجَزِ حَاجَتِهِ - وہ اپنا کام

پورا کرنے کے نزدیک ہے

النَّجِيدُ وَالنَّاجِزُ - حاضر - نقد - کتنے

ہیں بٹتے ناجز ناجز میں نے

اس کو ہاتھ دیا تھ بچا - نقد روپے

پر فروخت کیا

نَجَسَ (س) نَجَسًا وَنَجَسَ (ن) نَجَسًا

گذا ہونا - ناپاک ہونا - صفت

نَجَسَ وَنَجَسَ وَنَجَسَ وَنَجَسَ

نَجَسَ - ج۔ آنجاس

نَجَسَ وَأَنْجَسَ - ناپاک کرنا

نَجَسَ کرنا نَجَسَ الصَّبِيَّ وَلَكُنَّ

نظر بد سے بچاؤ کے لئے بچہ پر تعویذ وغیرہ

لگانا

تَنَجَسَ - نَجَسَ ہونا - الْكُوبُ: کپڑے کا

نجات سے بھرنا - نجات سے نکلنا

دَاءُ نَجَسٍ وَنَجَسٍ وَنَجَسٍ

لا علاج بیماری

النَّجَسُ - تعویذ کر کے والے

ن

نَجَش (ن) نَجَشًا - الشئ - کھود کرید کرنا
 نکان - بکیرے کے بعد جمع کرنا -
 الصید - شکار کو ایک جگہ سے دوسری
 جگہ کے لئے بھڑکانا - النار - آگ
 جلانا - روشن کرنا - الحدیث بات
 پھیلانا - فی البیعة چیز کی تعریف
 کر کے بائع کی موافقت کرنا بغیر ارادہ
 خرید داری چیز کا بھاؤ بڑھانا یا خریدار
 کو ایک چیز سے ہٹا کر دوسری چیز کی
 طرف رغبت دلانا - اسم (النَجَش)
 (نَجَشًا و نَجَاشًا) جلدی کرنا -
 تَنَاجَشَ - الْقَوْمُ فِي الْبَيْعِ - دوسرے
 سے بڑھ کر بولی بولنا -
 اسْتَنَجَشَ - الشئ - نکان - الصید
 شکار کو بھڑکانا -
 النَجَاشُ - قسم جس کو دو چہروں کے
 درمیان لکھ کر دیئے ہیں -
 النَجَاشِ وَالنَجَاشِ وَالنَجَاشِ -
 شکاری - النَجَاشِ وَالنَجَاشِ
 وَالنَجَاشِ - شکار کو شکاری کی
 طرف لانے والا - النَجَاشِ ميب گیر
 النَجَاشِ وَالنَجَاشِ وَالنَجَاشِ
 ملک حبشہ کے بادشاہ کا لقب قول
 مَنَجُوشٌ - جھوٹی من گھڑت بات
 نَجَع (ن) نَجُوعًا و نَجَعًا - الطعام
 فی الانسان خوراک کا نفع مند ہونا
 فیه الدواء أو الطعام أو الکلام
 داخل ہو کر اثر انداز ہونا
 نَجَع المکتب - شہر میں آنا - الْقَوْمُ
 النکلاء - لوگوں کا چر اگاہ تلاش کرنا
 الذیل البعوض و یا النجوع - آٹا اور
 پانی ملا کر پلانا - منجعة الصبی
 لبن الشاة أو لبن البقرة الشاة
 بیکر بکری کے دودھ کی خوراک دیا
 جانا - دودھ سے پرورش کیا جانا -

النَجَع - الطعام و غیرہ کھانے وغیرہ
 کا مفید ہونا - الراعی الفصیل
 اونٹ کے بچہ کو دودھ پلانا
 تَنَجَّحَ دَا نَجَجَ وَ اسْتَنَجَعَ
 الْقَوْمُ النکلاء - چر اگاہ کی تلاش میں
 جانا - تَنَجَّحَ وَ اسْتَنَجَعَ فَلَانَا
 بخشش کی طلب میں کسی کے پاس جانا
 تَنَجَّحَ بِالدم خون میں بھرتا ہوا -
 طعامٌ یَنَجِّعُ أَوْ یَسْتَنَجِّعُ یل
 أَوْ عَنْهُ - وہ کھانا جس کو کھا کر آدمی
 خوش ہو اور مڑتا ہو -
 النَجَّع - بالوں کا بنا ہوا نیمہ ج نمونہ -
 النَجَّعَ چر اگاہ کی تلاش ج نَجَّعَ -
 النَجَّع - چر اگاہ کا متلاشی ج نَجَّعَ
 و نکو جمع -
 النَجَّاع - شجاع کا تال ہے کہتے ہیں -
 شجاعٌ نَجَّاعٌ بہادر دلیر -
 النَجَّوعُ - آٹا ملا ہوا پانی جو اونٹ کو دیا
 جاتا ہے نَجَّوعُ الصبی بچہ کا دودھ
 النَجَّیع - نفع بخش خوراک - نافع مؤثر
 تقریر - سیاہی مال خون - ماءٌ نَجَّیعٌ
 خوش گوار پانی -
 المَنَجَّعَ وَ المَنَجَّعَ وَ المَنَجَّعَ
 حیر اگاہ -
 نَجَفَ (ن) نَجَفًا - النَجَفُ تراشنا
 صفت (نَجَفَ وَ مَنَجَفَ) -
 الشہوة - درخت کو بڑے کاٹنا -
 الشاة - بکری کا سارا دودھ نکال لینا
 نَجَفَ - ہوا کا ریت اڑانا -
 انْتَجَفَ وَ اسْتَنَجَفَ - الشئ - نکالنا -
 الریح السحابہ ہوا کا بادل
 کو پانی سے خالی کر دینا - الشاة
 بکری کا سارا دودھ دودھ لینا -
 النَجَف - ج نَجَفَ وَ النَجَفَ طیل
 دادی کا وہ حصہ جہاں پانی نہ چڑھے -

النَجَفَةُ - متھوڑی چیز
 النَجَافُ - دروازہ کے اوپر کا آگے کا بڑھا
 ہوا حصہ -
 النَجَفِٹ - چوڑے پھل والا تیرج نَجَفِٹ
 النَجَفِٹ - ٹوکرا المَنَجُوتُ مفعول چوڑے
 پھل والا تیر - بزدل - وسیع پہلوؤں والا
 برتن وغیرہ -
 نَجَلَ (ن) نَجَلًا - الشئ - ظاہر کرنا -
 - الْأَرْضُ - کھیتی کے لئے زمین بھارتا
 نَجَلَتِ الْأَرْضُ - زمین کا سرسبز ہونا -
 نَجَلَ فَلَانًا - ٹھوکر مار کر لڑھکانا -
 النَّاسُ - شرارت کرنا -
 نَجَلَ (ن) نَجَلًا - الشئ - الشئ - پھیلنا
 - بالدمج - نیزہ مارنا -
 الصبی النجج - بچہ کا تختی مٹانا -
 الرجل - تیز چلنا -
 نَجَلَ رَسَ نَجَلًا - الرجل - بڑی اور
 خوبصورت آنکھوں والا ہونا -
 صفت (انجَلَ) ج نَجَلَ وَ نَجَلَ
 آنکھ بھلانا ج نَجَلَ -
 انجَلَ - الدابة جانور کو سبزی چرانا
 تَنَاجَلَ الْقَوْمُ - آپس میں جھگڑنا -
 نسل پیدا کرنا -
 انجَلَ - الظرف - ظاہر ہونا اور گزرتا
 اسْتَنَجَلَ - المکان - کسی جگہ کا پانی
 کے رساؤ سے دل دل بن جانا -
 النجل - مصر - اولاد - نسل - النجل
 شریف الاصل - کیم الطبع - والد -
 ج انجَال -
 النجل - بڑی جماعت عمل - سرک جاری
 یار سے والا پانی - دلدل ج نجل
 د انجَال -
 النجل - شریف النسل انسان یا حیران
 موندت ناچلے ج نجلات و
 نجل -

الْأَنْجِلُ كَشَادَه - لِبَا چوڑا ج - نُجُلُ و
نِجَالُ مَوْنُثُ نِجَالُ و ج - نُجُلُ -
النَّجِيلُ - ایک قسم کی ترش گاس یا اس کے
پتوں کا چوڑا - ج - نُجُلُ -

الْمِنْجَلُ - در انتی ج مَنَاجِلُ الْمِنْجَلُ
گھنی کھیتی - بہت اولاد والا بڑوں
کا ماہر ہا بکتے والا چوڑا - زخم لگاتے
والا نیزہ -

نَجِّمَ (ن) مَجْرُومًا - الشَّيْءُ ظَاهِرٌ مَوْتًا
 نَكَلْنَا - كَذَّاءٌ عَنِ كَذِّ الْخُلَاةِ شَيْءٌ
 سے ایسا نتیجہ ظاہر ہوا - فَلَا تُؤْذِي الدِّينَ
 قَرْضِ قَسْطٍ سے ادا کرنا - السَّهْمُ
 أَوِ الدَّمِ مَحْ تیر یا نیزہ کا پار ہو جانا۔
 نَجِّمَ - احوالِ عالم معلوم کرنے کے لئے
 ستاروں کو دیکھنا - الدِّينَ - قَرْضِ
 کو قسطوں میں ادا کرتا ہے - عَلَيْكَ

لَدُنِّيَّةٌ - دیت کی قسط مقرر کرنا۔
 أَنْجَمَ - النجْم - ظاہر ہونا۔ اُنْجَمَتِ
 السَّمَاءُ - آسمان پر ستاروں کا ظاہر ہونا
 اَنْجَمَ الشِّتَاءُ اَوَ البَرْدُ جَارِ سِیَا
 سردی کا ختم ہونا۔ اَلرَّجُلُ عَنِ
 اَلْأَمْرِ - چھوڑنا۔ اُنْجَمَتِ الْحَرْبُ
 جنگ کا ختم ہونا۔

اِنْجَمَ الْبَرْدُ اِدِ الشِّتَاءِ :
 سردی یا جاڑے کا ختم ہونا۔
 تَنْجَمَ - احوالِ عالم معلوم کرنے کے لئے
 ستاروں کا دیکھنا۔

النَّجْمُ - ج. مَجْمُومٌ وَالْمَجْمُومُ وَالْجَمُّ وَالْجَمَامُ
وَالْجُمُّ - ستارہ۔ ثریا۔ مقررہ وقت
وقت مقررہ پر ادا کیا ہوا قرض۔ بیل
بے ساق نباتات۔ اصل۔ لفظ الحیثیت
لَا يَجْمَعُ لَهُ - اس بات کی کوئی اصل نہیں
الْجُمَّة - ستارہ۔ کلمہ - (وَالْجُمَّةُ)
در قسم کی گھاسیں - الْجُمَّةُ - زمین
پر پھیلنے والی بیل۔ دُودُ الْجُمَّةِ - گدھا

النَّجِيمِ - مِنَ الْبَنَاتِ تَارَهُ كَاسِ -
الْجَارُ وَالْمُنَجِّمِ وَالْمُنَجِّمِ -
نَجْمِي .

الْمُنْجَمُ - نکلنے کی جگہ - معدن - واضح آراء
الْمُنْجَمُ - ترازو میں لوہے کی ٹونڈی -
مِنْجَم الرَّجُلِ - ٹھننے -

مُجْتَنِبٌ مُجْتَنِبٌ - فِي رَأْيِهِ مَيَّ وَضَعُ
هَوْنًا - عَيْنُهُ - أَنْ تَكُونَ كَادَ عَيْنًا -

گر طے میں ہوتا۔ اَلْاَمَل۔ انگوٹوں کو
چھ اگاہ سے روک لینا۔ پانی سے واپس
کرنا۔ فَلَا نَأْتِيكَ۔ منع کرنا۔ الشَّيْءُ
حرکت دینا۔ اَلْاَمْرُ۔ سخت ارادہ کرنا
تَجِدُ الرَّجُلَ۔ حیران ہونا۔ الشَّيْءُ
مشک ہونا۔

نَجَاتٌ (۴) بَعْثُهَا وَاسْتِجَابَةٌ وَتَجَنُّبٌ
الرَّحْلُ - بُرِّی طَرَحَ بَشَانَا - بُرِّی طَرَحَ
پیش آنا - نَجَاتٌ عَلَی الْقَوْمِ مُنَاصَرَتُهُ
الْبَلَدُ - دَاخِلِ هُوْنَا اَوْ رَا پَسْتَدَارُ
نَجَا یَنْجُو نَجَاةً وَبَجَاءً اَوْ یَجُوءُ
وَبَجَايَةً - مِنْ کَذَا خِلَاصِی پَانَا -
نَحَاتِ بَانَا -

نَجَا يَنْجُو نَجَاءً عَجِيئاً كَرَكِ اَگے
 برآمد جاتا (نَجْوًا) الشجرۃ درخت
 کاٹنا الصَّبِي سچ کا یا سچا نہ کرنا
 فَلَانًا رُلّی دیتا۔ خلاصی دیتا۔
 الدَّوَاءُ۔ پلّیا۔ (۔ النجْو مِّن
 الْبَطْنِ) یا سچا نہ نکلتا۔ (۔ نَجْوًا
 وَنَجَا) الْجِلْدُ عَنِ الذَّيْبِ حَتَّى
 کھال اتارنا۔ (نَجْوًا وَنَجْوًى وَ
 نَجَا مَنَاجَاةً وَنَجَاءً الرَّجُلُ
 سرگوشی کرنا۔ اسم (النَّجْوَى)

کسی کے لئے ٹہنی کا ٹٹنا۔
الْجِدَّةُ۔ کھال اُتارنا۔ اَلْغَدِيَّةُ۔ پکی
کھجوروں والا ہونا۔ الرَّجُلُ۔
یسینہ نکالنا۔

سَنَجِی بِلَدِ زَمِینِ دُصُونَدَنَا۔
تَنَاجِی تَنَاجِیَا۔ اَلْقَوْمُ۔ سرگوشی کرنا
اِسْتَجِی اَلْقَوْمُ۔ سرگوشی کرنا۔
— الرِّجْلُ۔ سرگوشی کے لئے خاص
کرنا۔ اپنا راز دار بنانا۔

استنجا جی۔ من کذا۔ خلاصی پانا الشجرۃ
درخت کو جڑ سے کاٹنا۔ الشیء من فلان
چھڑوانا۔ الرجل پانٹھانہ کے
بعد صفائی کرنا۔ التمر یحل حینما
القرم۔ تر کھجوریں حاصل کرنا یا کھانا
الرجل تیز چلنا۔ شکست کھانا۔

کُنَاجِي - فارمونت نا جِئٔ جہ کُنَاج
و نا جِئٔ کُنَاجِئٔ تیر رنار
اوتنی ۔

النَّجَا - لا مٹھی - بکڑی - ہودے کی بکڑیاں
کھال -

لَسْجُودًا لِلْعِزِّ وَالْجَبَّارِ
خَلْقِي - رُبُّنِي كَيْتِي
الْجَبَّارِ وَالْجَبَّارِ
خَلْقِي كَرَمًا - خَلْقِي كَرَمًا -

لکھنؤ۔ مصر۔ پانچواں گز۔ دو کے درمیان
کا مجید ج۔ زجاج۔ بادل جو بارش
برسا چکا ہو ج۔ لکھنؤ۔

لِزَجَاةٍ مِمَّ غُلَاصِي - بَخَات - لِبِنْزَمِينِ
حَسَد - حَوْص - سَانِپ کی چِھتری - مِٹنی،
جِ نَحَا -

النَّجَاوَةُ - زمین کی سِعت

النَّجَى - مجید جس سے رازداری کی بات

کی بات کی جائے۔ بات کرنے والا

حدی پر ہنسنے والے کی آواز۔ چلا کر

مانگنے والا۔ جہ انجیت۔

الْمَنْجَى - نجات کا مقام۔ بلند زمین۔ ح

مناجج۔

الْمَنْجَاةُ - نجات کا باعث جہ مناجج۔

کہتے ہیں ”الْمَنْجَاةُ مَنْجَاةٌ“

سچائی نجات کا ذریعہ ہے۔

نَحْر (رض) مَجْرَحًا - الرَّجُلُ سینه میں

آواز کو دہرائنا۔

نَحْر (ن) نَحًّا - الْجَمَلُ - اونٹ کو تیز

چلنے پر اُکسانا۔

النَّحَاةُ - سخاوت۔ بخل۔

النَّحِيحُ - بخل۔ فَلَا نَشْتَجِبُ نَحِيحًا

فَلَا نَحْدِيضُ - وبخل ہے۔

نَحَبٌ (رض) نَحْبًا وَنَحْبًا -

الرَّجُلُ - بلند آوازی سے رونا۔

(نَحْبًا) بَكَدَا - شرط باندھنا

نَحَبٌ (رض) نَحْبًا وَنَحْبًا - البُعْدُ

اونٹ کا کھانا۔

نَحَبٌ (ن) نَحْبًا وَنَحْبًا - الرَّجُلُ

نذر ماننا۔

نَحَبٌ وَنَحَبٌ الْقَوْمُ فِي سَيْرِهِمْ

حدی چلنا۔ نَحَبٌ عَلَى الشَّيْءِ

مشغول ہونا۔

نَاحِيَةٌ مَنَاحِيَةٌ - فخر میں مقابلہ کرنا

شرط باندھنا۔ اِلَى فَيْصِلَ كَے

لئے جانے۔

تَنَاحِبٌ - الْقَوْمُ - لڑائی وغیرہ کے لئے

وقت مقرر کرنا۔

النَّحْبُ - بہت رونا۔ لمبے لمبے سانس لینا

النَّحْبُ مِمَّ - شدید گریہ۔ کھانسی سختی

سوت۔ مدت۔ وقت۔ بڑا خطرہ،

مہبت۔ نفس۔ لمبائی۔ نیند۔ موٹاپا۔

بڑے جسم کا اونٹ۔ حاجت۔ دلیل۔

جوا۔ آہستہ باتیں۔ رفتار۔ نذر۔

مَقْعَتِي فَلَا نَحْبَةَ - نڈاں مرگیا۔

النَّحْبَةُ - قرعہ۔

الْمَنْحَبُ - نا۔ سیر۔ مُنَحَبٌ تیز چال

نَحْتٌ (ن) وَنَحْتٌ (ن) نَحْتًا

الْعُودُ - لکڑی چھیلنا۔ ہموار کرنا۔

ہ پھیلا کرنا۔ السَّفَرُ - البُعْدُ

سفر کا اونٹ کو لاغر کرنا۔ الْجَمَلُ

پھاڑ کھودنا۔ الْكَلِمَةُ - دوکمون

سے مرکب کرنا جیسے بَسْمَلَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سے خود قلد۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ سے اور۔ أَلْفًا نَكَّةً

فَذَا لَيْكَ كَذَا وَكَذَا سے نَحْتُهُ

بِالْعَصَا - لاٹھی سے مارنا۔ ہا بلسانہ

غیبت کرنا۔ ملامت کرنا۔ گالی دینا

عَدْوَةً - طعن کرنا۔ بے آبروئی کرنا

نَحْتٌ فَلَا نَحْتٌ عَلَى الْكُرْمِ نڈاں

فیاض پیدا کیا گیا ہے۔

نَحْتٌ (ن) نَحْتًا -

النَّحْتُ مِنَ الْعَشْبَةِ - اس نے

لکڑی سے کاٹ لیا۔

النَّحْتُ - مہم۔ وَالنَّحَاتُ وَالنَّحِيَّةُ

طبیعت۔ النَّحِيَّةُ - پیش

النَّحَاةُ - لکڑی کا چھیلنا۔ تراش

کاٹنے سے گرے ہوئے ریزے۔

النَّحَاتُ - سنگ تراش۔

النَّحِيَّةُ - مہم تراشا ہوا اگر یہ دزادہ

پیش۔ لاغر اونٹ۔ ردی چیز۔

کنگھی۔ قوم میں اجنبی۔

الْمِنْحَاتُ - جہ مناجحت وَالْمِنْحَاتُ

جہ مناجحت - کندہ کرینکا آواز۔

لکڑی تراشنے کا آلہ۔ بسولہ۔ جہ

مَنَاحِيْتُ -

نَحْر (ن) نَحْرًا وَتَنَحَّرًا - گلے میں

چوٹ لگانا۔ ذبح کرنا۔ فَلَا نَحْبَةَ

کرنا۔ کہتے ہیں نَحْرًا أَلَا مَوْعِدًا -

اس نے معاملات کو مضبوط کیا۔

الصَّلَاةُ - اول وقت میں نماز ادا

کرنا۔ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ -

نمازی کا سینہ نکال کر کھڑا ہونا۔

نَا حَرَهُ مَنَّا حَرَةً - جھگڑا کرنا۔ گلے

میں زخم لگانا۔

تَنَّا حَرًا - الْقَوْمُ - جھگڑا کرنا۔ گلے

میں زخم لگانا۔

تَنَّا حَرًا الْقَوْمُ - جھگڑا کرنا۔

تَنَّا حَرَتِ الدَّارِ دُورِ دُورِ

کا ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔

الْقَوْمُ عَنِ الطَّرِيقِ - راستہ سے

ہٹنا۔ عَلَى الطَّرِيقِ وَغَيْرِهِ پے

درپے آنا۔

النَّحْرُ - الرَّجُلُ - خود کشی کرنا۔

النَّحْرُ السَّحَابُ - بادل کا

مہبت پانی لے کر اُٹھنا۔ بِالْعَصَا

لاٹھی سے مارنا۔

النَّحْرُ - مہم۔ سینه کا اوپر کا حصہ جہ

نَحْرٌ - "قَعْدٌ فِي نَحْرٍ فَلَانٍ"

وہ فلاں کے مقابل میں آیا نَحْرُ النَّهَارِ

أَوِ الشَّهْرِ - دن یا مہینہ کا ابتدائی

حصہ۔ يَوْمَ النَّحْرِ ماہ ذی الحجہ

کی دسویں تاریخ۔

النَّحْرُ - ماہر۔ ہنرمند۔ دانا بننا۔

النَّحْرُ - النَّا حَرًا - درشاہ گئی۔

النَّحْرُ - مَوْتُ - النَّحْرُ - ماہ کا اول

یا آخر دن یا اس کی آخری رات جہ

نَوَاحِرُ دُنَا حِدَاتُ -

النَّحْوِيَّةُ - حاذق۔ سمجھ دار۔ عقل مند

جہ: نَحَارٌ شِدْ -



النَّحِيزُ ذَبَحَ كَمَا هُوَ جَزَ نَحْوِي وَنَحْوِيَاءَ
وَنَحَايُوْءَ -

النَّحِيْزَةُ طَبِيعَتُ نَفَرَتِ جَزَ نَحَايُوْءَ
الْمَنْعُوْدُ لَغِيْثٍ فِي زَحْمٍ لَكَانَ كِي جَزَ ذَبَحَ
كَرْنَةُ كِي جَزَ -

الْمُنْتَحَرُ كَشَادَهُ رَاسَتَهُ
الْمُنْحَارُ شَرِيفٌ اَدْمِيْ بَهْتِ رِيَادَهُ ذَبَحَ
كَرْنَةُ وَالَا - مَهْمَانُ نَزَا -

نَحَزَهُ (ن) نَحَزًا - دَفَعُ كَرْنًا يَحْيِيْهُ بَنَانًا
لَاوْنٍ فِي كَرْنًا - سَمِيْنٌ فِي مَكَارِنَا
نَحَزُوْ وَنَحَزَرُ (ن) وَنَحَزَرُ (ن) نَحَزًا

وَنَحَزَرُ - الْبَعِيْرُ - اَدْنُ كَا بَحِيْرٍ
كِي بِيْمَارِي وَالَا هُوْنَا - صِفَتُ (ن) نَحَزَرُ
وَنَا حَزَرُ وَنَحِيْزُ وَنَحْوَرُ (ن)

نَحَزَرُ (ن) نَحَزَرًا - الرِّجْلُ - كَهَانَا -
أَنَحَزَرُ - بِيْمَارٍ اَدْنُوْءُ وَالَا هُوْنَا
النَّحَازُ - اَدْنُ كَا بَحِيْرٍ طَرَفُ كِي بِيْمَارِي

(ن) وَالنَّحَازُ (ن) اَصْلُ
النَّحِيْزَةُ طَبِيعَتُ يَحْتِ نَا هُوَارَ
رَاسَتَهُ جَزَ نَحَايُوْءَ -

الْمُنْحَازُ - لَاوْنٍ - اَوَكَلِي -
نَحَسَ (ن) نَحَسًا وَنَحَسَ (ن)

نَحَا سَتَهُ وَنَحْوَسَتَهُ - مَنُحُوْسَةُ - مَنُحُوْسَةُ
نَا مَبَارَكُ هُوْنَا - بِدَقَمَتِ هُوْنَا - صِفَتُ
(نَحَسَ وَنَحَسَ وَنَحَسَ وَنَحَسَ) يَوْمُ

نَحَسَ وَنَحَسَ وَنَحَسَ وَنَحَسَ وَنَحَسَ
وَأَيَّامُ نَحَايُوْءَ وَنَحَسَاتُ
وَنَحَسَاتُ -

نَحَسَتَهُ (ن) نَحَسًا - تَلَمَّ كَرْنًا -
أَنَحَسَتُ - الْبَارُ - اَكْ كَانِيَادَهُ وَهَوَا
أُطْهَانَا -

نَحَسَ - الْأَجْبَارُ - خَبَرُوْنَ كِي تَحَسَ فِي
لَغَا - لَوْهَ لَغَا - تَنَحَّسَ الرَّجُلُ
مَجْهُوْكَا هُوْنَا - لَشَرِبَ الدَّوَاءَ - مَجْهُوْكَا
رَبْنَا -

(ن) وَاسْتَنَحَسَ (ن) الْأَجْبَارُ وَهَمْنًا
تَحَسَ كَرْنًا - خَبَرُوْنَ كِي يَحْيِيْ لَغَا -

تَنَحَّسَ وَاسْتَنَحَسَ - فَلَا نَ - اَوَدَا
كَرْنًا - عَامَرُ نَا حَسَ - قَوَطُ كَا سَال
جَزَ كَوَا حَسَ -

النَّحَسُ - مَم - مَنُحُوْسَ - نَا مَبَارَكُ جَزَ
نَحُوْسَ وَالنَّحَسَ - النَّحَسَ -
مَشَقَّتُ - مَفْرَتُ - نَا قَابِلُ حَلِّ مَسَالِ

مُحَصَّدِيْ يَحْيِيْ هُوَا - غِبَارُ النَّحَسَانِ
زَحَل - مَرِيْخُ وَالسَّعْدَانُ يَشْرِي
دَهْرَهُ -

النَّحَسُ قَرِيْ مَهِيْنَةُ كِي آخِرِيْ تِيْنِ رَاتِيْ -
النَّحَسَ - تَانَا - اَكْ - دَهْوَا طَبِيعَتُ
جَنَگَايَا جُوْءِ كِي كُوْتَتِيْ وَتُتِيْ اُتُتِيْ

فِيْ -
النَّحَسَ - تَانَا كَا مَكْرَنُ وَالَا بَهْمُ
الْمَنَاحِسَ - مَنُحُوْسَ - مَنُحُوْسَ - مَنُحُوْسَ -
كَرْنَةُ دَاوِيْ - مَوْر -

نَحَصَتُ (ن) نَحْوَصًا - النَّاقَةُ -
اَدْنِيْ كَا بَهْتِ مَوْنَا هُوْنَا يَا مُسَايُ كِي وَجْهٍ
سَعَا مَنُ هُوْنَا - صِفَتُ (ن) نَحْوَصَ د

نَحِيْصَ (ن) جَزَ نَحْوَصَ وَنَحَا صَ -
النَّحَصَ - پَهَاؤُ كَا دَا مَنُ
نَحَصَ (ن) مَنُ - اَدْنِيْ سَعَا مَنُ تَارْنَا

- فَلَا نَا - اَمْرَادُ سَعَا سَوَالُ كَرْنًا -
الْأَسْنَانُ - مَجَالِيْزُ كَرْنًا - اَلْأَهْوُ
زَمَانُ كَا كَسِيْ كُوْنَقَصَانُ يَهْنَانَا -

نَحَصَ (ن) نَحْوَصًا وَنَحَصَ (ن) نَحَصَ
وَلَا هُوْنَا - صِفَتُ نَحِيْصَ وَنَحْوَصَ (ن)
النَّحَصَ مَم - كُوْتَتُ - مَوْنَا كُوْتَتُ - جَزَ

نَحَا صَ وَنَحْوَصَ
النَّحَصَتَةُ - كُوْتَتُ كَا مَوْنَا مَكْرَا
نَحَطَ (ن) نَحَطًا وَنَحِيْطًا -

الْفَرَسُ - لَغُوْرُ كَا تَكَانُ سَعَا اَوَا
لَكَانَا - (ن) نَحِيْطًا - الرَّجُلُ - لِيْجِيْ
لِيْجِيْ

لِيْجِيْ سَانَسُ لِيْنَا - (ن) نَحَطًا - السَّائِلُ
سَائِلُ كُو سَوَالُ كِي وَتُتِيْ مَجْهُوْكَا -

النَّحِطُ - نَا - سَحْتُ كَهَانِيْ وَالَا -
النَّحَطُ وَالنَّحَاطُ وَالنَّحِيْطُ - سَيْنَةُ كِي
اَنَدَرُ رُوْنَةُ كِي دَبِيْ مَوْنِيْ اَوَا -

النَّحِطَةُ - اَدْنُوْءُ اَوَدَرُ لَغُوْرُوْءُ كِي سَيْنَةُ
كِي بِيْمَارِيْ جَزَ سَعَا مَنُ كَا جَانُ بَرْمُوْتِيْ
فِيْ -

النَّحَاطُ - مَجْهُوْكَا - مَغْرُوْر -
نَحِطَ (ن) وَنَحِطَ (ن) نَحَا قَةُ - دَبَلَا
هُوْنَا - صِفَتُ نَحِطَ - جَزَ نَحِطُ وَ

نَحِطَ جَزَ نَحَا قَةُ وَنَحَا قَةُ وَنَحَا قَةُ
أَنَحِطَةُ - دَبَلَا وَلاَغَرُ كَرْنًا -
نَحَلَ (ن) وَنَحَلَ (ن) وَنَحَلَ (ن)

نَحُوْلًا - جِسْمُهُ - بِيْمَارِيْ يَا تَكَانُ سَعَا
دَبَلَا هُوْنَا
نَحَلَ (ن) نَحَلًا - الرَّجُلُ - كَسِيْ كُو كُوْتِيْ مَجْهُوْكَا

دَبَلَا - الْمَرْأَةُ - عَوْرَتُ كُو مَهْرُ دَبَلَا
اَسْمُ (النَّحَلَةِ) - (ن) نَحَلًا - اَلْقَلْ
غَلَطَاتُ مَنُ سَوْبُ كَرْنًا - زَبَدَا - كَالِيْ دَبَلَا

- اَلْمَرْصَنُ - بِيْمَارِيْ كَا كَسِيْ كُو دَبَلَا
كَرْنًا -
أَنَحَلُ وَنَحَلُ - فَلَا نَا مَاءَ - دَبَلَا -

اَلْمَالُ - مَالُ دَبَلَا -
أَنَحَلُ وَنَحَلُ - مَذْهَبُ اَخْتِيَادُ كَرْنًا -
- شَعْرُ غَيْرِهِ - جَزَ شَعْرُ كُو اَخْتِيَادُ

طَرَفُ مَسْرُوبُ كَرْنًا -
النَّحَلُ - شَهْدُ كِي (ن) مَذْهَبُ مَوْنُ - وَاحِدُ
(نَحَلَتُ)

النَّحَلُ - لَاغَرُ دَبَلَا - عَطِيْةُ يَحْبَشُشُ ،
نِيَا پَانَدُ -
النَّحَلُ وَالنَّحَلِيْ وَالنَّحَلَانُ عَطِيْةُ


هَبِيْ - عَوْرَتُ كُو مَهْرُ دَبَلَا - دَعْوِيْ مَذْهَبُ
دِيَانَتُ جَزَ نَحَلُ وَنَحَلُ -
النَّحَلُ وَالنَّحَلَةُ - لَاغَرِيْ



النَّاحِلُ - فَا - دُلا تِلَاج - نُحُول
النَّاحِلَةُ - مَوْث النَّاحِل - ج
نَوَاحِلُ - النَّوَّاحِلُ وَه تِلَاج
جَن كَاسِل كَثْرَتِ اسْتِمَالِ سَ تِلَاجِ پَر گِیَا ہُو
النَّحِيلُ - دُلا - ج - نَحْلِي
نَحْمَ (مَنْ) نَحْمًا وَنَحْمًا وَنَحْمًا
- الرَّجُلُ - كُنْكَارًا - كَلَامًا كَرْنَا
الْأَسَدُ - دُلا - نَا
اسْتَحْمَ - عَلَى كَذَا وَكَذَا بِحُجْرَةِ ارَادَه
النَّحَامَ - اِيك اِي پَرندہ - واحد (نَحَامَتُهُ)
النَّحِيمُ - پِٹ کی آواز یا گرو گراہٹ -
النَّحِيلُ - پِٹ کی گرو گراہٹ والا - شیر
بنیل -
نَحْنُ - جَمْع مُنْكَم کی مَیْمَر
نَحْنُ وَنَحْنُ - الرَّجُلُ - كَلَامًا
کَرْنَا - سِنہ سے آواز نکالنا بڑی طرح
بھانا - کہتے ہیں مَا آتَا بِنَحْنُ النَّحْنُ
عَنْ كَذَا - مِرَادِ اس سے غرض نہیں
النَّحَايَةُ - نَحْل - کہتے ہیں
نَحَايَةُ نَحْوًا - الشَّيْءُ - قَصْدِ ارَادَه
کَرْنَا - نَحَا نَحْوًا فَلَانِ کسی کی پُردی
کَرْنَا نَحَا بَعْوَةً اِيْئِ - نَظَرِ کسی کی
طَرَفِ پھیر کر دیکھنا - الرَّجُلُ - اِيك رُخ
میں جھکنا - فَلَانَا عَنْهُ پھیرنا بھانا
الشَّيْءُ - جھکانا - نَحْيَ تَنَحُّيَةً الرَّجُلُ
عَنْ مَوْصِيْعِهِ اپنی جگہ سے بھانا -
مَلْهُوہ کَرْنَا نَحَاةً مُنَا حَاةً - اِيك
دوسرے کی طرف بھانا -
اَنْتَحَى اَنْحَاءً - اَمْتَا دُکَرْنَا اِيك جَانِبِ
جھکنا - عَلَى فَلَانِ صُورَتًا - مَتَوَبُّوہ
بَعْوَةً عَنْهُ - نَظَرِ پھیرنا - عَلَيْهِ اَمْتَا
کَرْنَا -
اَنْتَحَى - اَنْتَحَاءً - الشَّيْءُ اَوِ الرَّجُلُ
قَصْدِ ارَادَه کَرْنَا - لَہ کسی پر
اَمْتَا دُکَرْنَا اَمْتَا اس کی طرف جھکنا -

الْبَعْدُ عَلَى شَيْءٍ اَلَا يَسُو - اَوْتِ
کا اپنی بائیں طرف جھکنا -
تَنَحَّى - عَنْ مَوْصِيْعِهِ - اپنی جگہ سے اُگ
ہونا - لِلشَّيْءِ - اَمْتَا دُکَرْنَا -
الرَّجُلُ - اپنے کلام میں اعراب استمال
کَرْنَا -
النَّحْوُ - جَانِبِ - جَمْتِ - رَاسْتِ - شِلْ مَقْدَارِ
قَصْدِ - جِ اَنْحَاءً - عِلْمِ النَّحْوِ - دُہ علم
سے جس میں کلام عرب کے اعراب اور
تَرْكِيْبِ وَاِفْرَادِ سے بحث ہوتی ہے
جِ اَنْحَاءُ دُ نَحْوٍ - تَصْفِيهِ تَحْيِيَّةً
النَّحْوِيَّ - عَالِمِ عِلْمِ نَحْوٍ - جِ نَحْوِيَّوْتِ
النَّاحِي - فَا - عِلْمِ نَحْوِ کَا جَانِبِ دَالِاجِ مُنَا حَاةً
النَّاحِيَّةُ - جَانِبِ - جَمْتِ - جِ نَا حِيَا تِ د
نَحْوِ اِحْ وَا نَحْيِيَّةً -
نَحْيَ يَنْحَى وَيَنْحَى نَحْيًا - اَللَّبَنُ
دودھ بھونا - الشَّيْءُ - زَا سِلْ کَرْنَا -
بَعْوَةً اِيْئِ - نگاہ پھیرنا -
نَحَاةً يَنْحِيَةً نَحْيًا - اِيك جَانِبِ کَرْنَا
اَنْحَى - لَہ السَّكَا حَ - تَهْمَا رَاسْتِ مارنا
- عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ - تِلَاجِ سے مارنا
نَحَاةً تَنَحُّيَةً - زَا سِلْ کَرْنَا - جھکانا ،
اَنْتَحَى - فِي الْاَقْرِ - کُشْشِ کَرْنَا -
فِي الشَّيْءِ - سَهَارِ اِلْيَا -
النَّحْيِ وَالنَّحْيِ وَالنَّحْيِ - گھ کی مُشْکِ
دودھ بھونے کا برتن - بھونی چُورُہ
پھل کا تیر - جِ اَنْحَاءُ دُ نَحَا دُ نَحْيِ
النَّحْيِيَّةُ - قَصْدِ - نَشَاةً - فَلَانِ نَحْيِ
اَلشَّدَا اِيْئِ - فَا انْ مَصِيْبَتُوں کَا نَشَا
سے -
الْمُنْحَاةُ - پَانِي سِنے کی پیمیدگی پیمیدار جگہ
پانی لانے والے دُکَر کا رَاسْتِ -
جِ مَنَاجِرِ - اَهْلُ الْمُنْحَاةِ دُور
کے لوگ جو رشتہ دار نہ ہوں
نَحْ (ن) نَحَا - تیر چلنا - اَلْاِبِلُ

اَوْتِ کو تیر - بَا کُنَا - اَلْاِبِلُ وَبَا اِبِلِ
اَوْتِ کو اَخِ اَخِ یا نَحْ نَحْ کہہ
کَر بھانا -
النَّحْ - مَم - لِبَا فَرَشِ جِ اَنْحَا حَ -
النَّحْ - لَہ بَارَشِ - کَامِ کَرنے والے یل
تِلَاجِ دُلا مَر دِیا عُدْتِ بَیْرَ مَصْدَقِ بَیْرَ
النَّحْ - کَامِ کَرنے والے یل -
النَّحْ وَالنَّحَاةُ - گودا مَغْر -
نَحْبَ دَن - نَحْبًا - الشَّيْءُ - کَیْنِیْنَا -
خَلَا صَہ کَالَا - اِجْجَا حَصَہ لَیْنَا -
نَحْبَتِ النَّحْلَةِ - چیدہ کی کَالَا -
النَّحْلُ الصَّبِيْدُ - بَارَشِ کَا شَا کَر کَہ دَل
کَر کَالِ لَیْنَا -
نَحْبَ رَمِ - نَحْبًا - بَزْدَلِ ہونا - صَفْتِ
(نَحْبَ وَنَحْبَ وَنَحْبَ وَنَحْبَ وَنَحْبَ وَنَحْبَ)
اَنْحَبَ
اَنْحَبَ الرَّجُلُ - بَزْدَلِ یا بَہَادِرِ پَہ جَہْنَا
بَزْدَلِ یا بَہَادِرِ پَہ جَہْنَا -
اَنْحَبَ - الشَّيْءُ - کَیْنِیْنَا - لَہ کَرْنَا -
اَنْحَبَ مَم - بَزْدَلِ - تَهْمَا دُنی - ڈُپَرِکِ
جَامِ صَمْتِ - (وَالنَّحْبَةُ) سُرِیْنِ
بَزْدَلِ -
النَّحْبَةُ وَالنَّحْبَةُ - ہر اِيك چَیْرَ کَا مَدہ
حَصَہ جِ - نَحْبَ -
النَّحْبَةُ - چیدہ لَہ جِ نَحْبَاتِ
النَّحْبِ جِ نَحْبَ دَا لَہ نَحْبُوبِ
النَّحْبُوبِ - دُلا - لَا غَر -
النَّحْبُوبِ - لَہ -
النَّحَابِ دَلِ کی جَہْلِ
اَلْمُنْحَابِ - کَزْدَرِ - بَیْرَ - نَا کَا رَہ -
نَحْتِ (ن) نَحْتًا - اَلْاِبِلُ وَبَا اِبِلِ
پَرندہ کا چَہ سَچِ مارنا - اَلْقَوْلُ - بَاتِ
کُرَا نَتھَا کَمِ پَہنچنا -
نَخَجَ رَمِ - نَخَجًا - اَلْسِيلُ مَسْلَبِ
کَا کَا رُوں سے کُرَا نا - اَلْاِبِلُ وَبَا اِبِلِ



ڈول کو پانی سے بھرتے کے لئے کنویں میں
ملانا۔

اسْتَنْجَجَ - الرَّجُلُ سَخِيًّا كَيْ يَنْزِلَ
نَخْرَ (مَنْ) نَخْرًا وَنَخِيرًا - الْإِنْسَانُ
أَوْ الدَّابَّةُ خَرَّاطَ لَبَنًا -

نَخْرَ نَخْرًا - الْعَالِبُ النَّاقَةَ
ناک کے تختوں میں اُنکی ڈال کر
سہلانا تاکہ دودھ تختوں میں اُتارے
نَخْرَ (مَنْ) نَخْرًا - الْعَوْدُ أَوْ الْعَظْمُ
وَسُخْرًا - بوسیدہ ہو کر ریہ ریہ ہونا
صفت ناخو و نَخْرَ

نَخْرَةً - بوسیدہ کرنا گفتگو کرنا۔
النَّخْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ - ہوا کی تیز رفتاری
(وَالنَّخْرَةُ) ناک کا اگلا حصہ ج
نَخْرَ -

النَّخْرُ - فَا - بوسیدہ - ریہہ ریہہ۔
حمل اور سورہ گدھا - گھوڑا - ج۔
نَخْرُ کہتے ہیں ما بالدار ناخو گھر
میں کوئی نہیں۔

النَّخْرَةُ مَوْتُ النَّخْرِ - بوسیدہ
ڈیاں - گھوڑے - گدھے۔

النَّخَارُ - سَبْتُ خَرَّاطَ لَبَنَ وَالَا -
النَّخْوَارُ - بَزْدَل - كَزْدَر - شَرِيف
سُكْبَر ج نَخْوَرَة -

الْمُنْخَرُ وَالْمُنْخَرُ - وَالْمُنْخَرُ
وَالْمُنْخَرُ وَالْمُنْخَرُ وَالْمُنْخَرُ
ناک ج مَنَّاخُو وَمَنَّاخُو -

نَخْرَبُ - الشَّجَرَةُ - دَرَخْتٌ بِي سَوَارِجٍ كَرْنَا
النَّخْرُوبُ - سَوَارِجٌ يَتَقَرَّبُ دِرَاطُ
ج نَخَارِيْبُ - نَخَارِيْبُ الْكُنْ
شہد کے چھتے کے خانے۔

نَخْرَ (مَنْ) نَخْرًا بِالْحَبِيبَةِ
وہ سے مارتا - ہ بکلمتہ بکلمہ
سے دکھ دینا۔

نَخْسَ (مَنْ) نَخْسًا - الدَّابَّةُ جَانُورٌ

کے سپو یا چھپے پر نوکدار کھڑی یا کیل
ر آ کر چھوٹا تاکہ وہ تیز چلے - نَخْلَانِ
بھڑکانا - برانگیختہ کرنا - الْبُكَرَةُ
چرخ میں پچر لگانا۔

نَخْسَ - لَحْمَةً - كَرَشْتٌ كَمْ هُوَ الْبَعِيرُ
اونٹ کا خارش دیم والا ہونا - صَفَتْ
مَنْخُوسَ -

تَنَّاخَسَتْ - الْعَنَمُ كَوْنُ بَكْرِيٍّ كَاسِرِيٍّ
کی وجہ سے ایک دوسرے سے گرمی
حاصل کرنا - الْعَوْدُ كَنْ وَتَالُوبُ

کالیک دوسرے میں پانی پیچنا۔
النَّخْسَ - فَا - اونٹ کی دیم کی کھجلی۔
(وَالنَّخْسُ) - جَوَانُ پھاڑی بکرا

النَّخْسُ - چرخ میں سے سوراخ فراخ
ہونے کے سبب اس میں کھڑی وغیرہ
کی پچر لگائی جائے۔

النَّخْسَةُ - بَحِيرَةُ بَكْرِيٍّ كَالْبَاحِلِ دَوْدُو
مکھن۔

النَّخْسُ - چرخ کے سوراخ میں لگائی ہوئی
پچر نَخَا سَا الْبَنِيَّتِ - دَرْدَاذَہ کے
عمود - ج نَخْسَ -

النَّخَاسَةُ - مَبْنِي نَخَاسَ -
(وَالنَّخَاسَةُ) غَلَامُونَ يَأْ
جانوروں کی بیع۔

النَّخَاسُ - بَحِيرَةُ جَبُونِ وَالَا - غَلَامُونَ
اور جانوروں کی تجارت کرتے والے۔
النَّخَسَ - مَبْنِي - نَخْسَ ج مَنَّاخَسَ

نَخْسَهُ (مَنْ) نَخْسًا - اُكْسَانًا بَحْرًا
اذیت دینا - الشَّيْءُ - حَرَكْتُ دِينَا -
الدَّابَّةُ - جَانُورٌ كَوْتَرِيزٌ كَالْمَكْنَا -
الْعَوْدُ - كَرْدِي كَرْمِيْن -

نَخْسَ (مَنْ) نَخْسًا وَنَخْسًا - الشَّيْءُ بَحْلِيَّةٌ
ہونا۔
نَخْسَ (مَنْ) نَخْسًا - الشَّيْءُ بَحْلِيَّةٌ

سے بوسیدہ ہونا۔

تَنَخَّشَ - اِلَى كَذَا - حَرَكْتُ كَرْنَا -
النَّخْسَ - مَعَهُ - مَالٌ كَالْبَكْرِ حَصَدَ -

نَخَصَ (مَنْ) نَخَصًا - الرَّجُلُ - لَافِزٌ
ہوتا - جھروں والا ہونا۔

نَخَصَهُ وَانْخَصَهُ - الْبَكْرُ وَالْمَرْءُ
بڑھاپے یا بیماری کا کسی کو لاغر کر
کے جھریاں ڈالنا۔

نَخَصَ (مَنْ) نَخَصًا وَانْخَصَ كَرْمًا
کم گوشت ہونا۔
مُجْمَدٌ نَخَصٌ - جھروں والی بڑھیا

نَخَطَ (مَنْ) نَخَطًا - الْبَنِيَّةُ - اِجَامَتُهَا
- الْمَخَاطُ مِنْ آفَتِهِ - نَاكٌ جَارُتَا
ناک کا رینگ صاف کرنا۔

نَخَطَ (مَنْ) نَخَطًا - نَخْلَانِ - كَالِي دِينَا
نیت کرنا - تَقْلِيْدٌ كَبِيْرٌ كَرْنَا -
النَّخَطَةُ - مَشَا يَرُ هُونَا -

النَّخَطُ وَالنَّخَطُ - نَوَكٌ - مَا اَذْرَى
آئی النُّخَطُ هُوَ - مِيْنِ نِيْنِ جَانَاوَدَ
کس قسم کا آدمی ہے۔ النُّخَطُ -

حَرَامٌ مَغْرَ - بَحْرِي كَالِي كَالِي -
النَّخَطُ - نِيْرَمِ سَ كَھِيْلَے دَالِے بَھَادِرِ

نَخَعُ (مَنْ) نَخَعًا - الدَّابَّةُ نَخَعَتْ - ذَبَحَ
کرتے وقت جھڑی کو حرام مغز تک
اُتار دینا - اَلَا مَنَّاخِلًا - خَوْبٌ بَاخِرٌ

ہونا - اَلَا طَاعَتُهُ أَوْ النُّصِيْعَةُ -
اَلَا عِلَّتْ وَنُصِيْعَتٌ مِيْنِ خَلُوصِ بَرْتَا
- الرَّجُلُ سِيْنَةً نَاكٌ سَ كَوْنِي

جِيْرٌ دَرَكْرَا - نَخَوْنَا كَہ -
بَحْلِي حَقِ كَالِ اَقْرَارِ كَرْنَا -

نَخَعُ (مَنْ) نَخَعًا - الْعَوْدُ أَوْ الْبَنِيَّةُ
کھڑی یا نباتات سے پانی رسنا۔
فُلَانٌ يَحْقِي - حَقِ كَالِ اَقْرَارِ كَرْنَا -

اَلَا نَخَعُ - سَبْتٌ ذَلِيلٌ - زِيَادَةُ بَلَاكٌ
کرنے والا۔
النَّخَعُ - كَرْدَنُ كَالِ اَقْرَارِ كَرْنَا جَوْرٌ سَ لَعْنِي



ہوتا ہے۔ حرام مغز۔ کٹنے کی جگہ۔
 نَخَفَ (ن) نَخْفًا وَ نَخِيفًا۔ بکری
 کا چھینکے وقت آواز نکالنا۔
 انْخَفَ۔ چھینکے بہتے بہت آواز نکالنا
 النَخْفَةُ۔ سپاہی کی چوٹی کا گروہا۔
 النَخَافُ۔ موزہ ج۔ انْخَفَ
 نَخَلَ (ن) نَخْلًا۔ الدَّقِيقُ۔ آٹا پھاننا
 مہوسی نکالنا۔ الشیءُ پسند کرنا۔
 صاف کرنا۔ النَصِيحَةُ۔ آواز
 بظُلْمٍ۔ خالص دوستی یا نصیحت کرنا
 (۔ وَ نَخَلَ السَّيَّابُ۔ الشَّلَجُ
 بادل کا برف گرانا۔
 تَنَخَّلَ وَ انْتَخَلَ۔ الشیءُ چھنا۔
 عمدہ حصہ لینا۔
 النَخْلُ وَ النَّخِيلُ۔ درخت خرما۔
 واحد (نَخْلَةٌ وَ نَخِيلَةٌ)
 النِّخَالَةُ۔ مہوسی چھان
 النَّخِيلَةُ۔ طبیعت خالص خیر خواہی
 ج تَخَائُلٌ۔ لَا يُقْبَلُ اللّٰهُ الْآ
 تَخَائُلٌ الْقُلُوبِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ
 صرف خالص نیتوں کو قبول فرماتا ہے
 النَّخْلُ۔ فَا۔ اَتَدْنَا خِلَ الصَّدْرِ
 وہ بے غرض نصیحت کرنے والا ہے
 النِّخَالُ۔ بہت کھجور کے درختوں والا
 آٹا پھاننے والا۔
 الْمُنْخَلُ وَ الْمُنْخَلُ۔ چھنی ج مَنَ خَلَّ
 نَخَمَ (ن) نَخْمًا۔ کھینا۔ عمدہ گانا
 صفت (نَاخِمٌ)
 نَخِمَ (س) نَخْمًا وَ نَخْمًا وَ نَخِمَ
 کھنکارتا۔ ناک صاف کرنا۔
 نَخِمَ (س) نَخْمًا۔ الدَّجُلُ۔ بھکانا۔
 النِّخَامَةُ۔ کھنکارتا۔ رینٹ۔ بلغم
 النِّخْمَةُ۔ کھنکار۔ رینٹ۔ حسن۔
 بہادری۔ تمہیڑ۔
 نَخْنَجُ الْبَيْضُ۔ اونٹ کو بٹھانا۔

تَنْخَعْ فَلَا تَأْجِدْكَ - طائفاً نَخَعْ
الرَّجُلُ تَرَجَعْنَا - نَخَعْ بِالْإِيلِ
اورٹ کو ایلخ ککر ٹھانا -
نَخَا يَنْخَعُ نَخْوَةً - الرَّجُلُ تَوَلَّى
نَخِي نَخْوَةً - الرَّجُلُ فَرَكْنَا عَمَلْتَ
ظاہر کرنا -
النَّخْيُ انْخَاءٌ - نَخْتُ وَتَكْرٍ مِنْ بَطْنِ
النَّخْيِ انْخَاءٌ - عَلَيْنَا - غُورِ بِشِ
- مِنْ كَذَا - نَخَجَانَا -
النَّخْوَةُ - مَصْرٌ - بَهَادِرِي مَرَوْت - بَطْنِي
مخبر - فخر -
نَخَا رَمْنٌ - نَخَا وَنَخِي أَوْ نَخَا
وَنَخَا - البَعِيرُ - اورٹ کا کر
کر بھگانا -
نَخَا - الرَّجُلُ - اورٹوں کو متفرق کرنا
- باشی - رگوں میں شائع اور شہور
کرنا - بَنَدِي - کسی کے عیوب کھونا
قبیح بات سنانا - صَوْنَةُ - آواز
بلند کرنا -
النَّخَا - الرَّجُلُ - اورٹوں کو متفرق کرنا
نَخَا مَنَادَةٌ - مخالفت کرنا -
نَخَا - النِّعَمُ - باہم منافرت کرنا -
مخالفت کرنا بھگانا - بھگانا -
نَخَا رَمْنٌ - الرَّجُلُ - ایک کر بھگانا
النَّخَا - الرَّجُلُ - ان کے لئے
رَدِ قَبُولِ جِ نَخَا
النَّخَا - الرَّجُلُ - پہاڑی -
النَّخَا - الرَّجُلُ - نظیر - کمال - نَخَا
کوئی نظیر نہیں جو نَخَا
النَّخَا - الرَّجُلُ - اگر کی کھڑی
النَّخَا - الرَّجُلُ - نظیر جِ نَخَا
نَخَا - الرَّجُلُ - نَخَا
النَّخَا - الرَّجُلُ - مَصْرٌ - نَخَا
نَخَا - الرَّجُلُ - نَخَا
نَخَا - الرَّجُلُ - نَخَا
نَخَا - الرَّجُلُ - نَخَا

سَدَّ آه (ن) سَدَّ - ڈرانا، خوفزدہ کرنا
سَدَّ آہِ الدَّحْمِ - گدشت کو آگ میں دہانا
- المَلَّة - مجھو بھل بنانا - عَلَمٌ و
ظاہر ہونا۔
السَّدِّي - آگ میں دبا یا ہوا گدشت
السَّدِّي وَالسَّدَاةُ وَالسَّدَاةُ -
سورج کے ڈوبنے یا نکلنے وقت تبادل
کی لڑخی - دھنک - السَّدَاةُ و
السَّدَاةُ - سورج کا دائرہ - چاند
کا بالہ - مولشی یا دولت کی کثرت۔
سَدَّاب (ن) سَدَّابَا - المیت میت
پرزونا میت کی خوبیاں بیان کرنا
- فَلَا نَأْمِلُ لَكَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً -
لہانا۔ اگنا - ہ - اِلَى الْحَرْبِ
روائی کی طرف متوجہ کرنا - صفت نا علی
(نادب) صفت مفعولی - مَسْدُوب
اَلْيَسْرِ اسم (السَّدَابَةُ)
سَدَّاب (س) سَدَّابَا و سَدَّابَا و سَدَّابَا
- انظر - پیچھے کا زخم سے نشان دہی
ہونا - صفت (سَدَّابِي) - (سَدَّابَا
و السَّدَابِ) الجرح - زخم کے نشان
کا سمٹ ہونا - اَسَدَابُ فُلَانٍ
نَفْسُهُ و يَنْفَسُهُ اس نے اپنی
جان کو خطرہ میں ڈالا - اَسَدَابُ الْجُحْمِ
فُلَانَا - نشان لگانا۔
سَدَّاب (ن) سَدَّابِي - الرَّجُلُ
زیرک ہونا - ہوشیار و حسیٹ ہونا
اَسَدَابُ - لُفَاكٍ تردید کرنا -
اَسَدَابُ بَنِي لَدَا قَوْمٍ - ملاؤ بہ پر جواب
دینا - خَلَا مَا اَسَدَابُ - جو آسان
السَّدَابُ - منہ - فضیلتوں کی طرف
پیش قدمی کہ فیوالا حیت - ذہین -
شریف - دانا کم حاجت جَنَدَاوُكُ
وَسَدَّابَا - قَسْوُ سَدَّابُ -
تیز گھوڑا۔

السَّنَابُ - مع - زخم کا اثر جو سُنَابُ
گھوڑوں کی شرط تیز تیز چھینکنے والی
کمان - ج - السَّنَابُ
السَّنَابَةُ - مؤنث السَّنَابُ - (والسَّنَابَةُ)
زخم کا نشان جو جلد پر رہ جائے - ج -
سُنَابُ وجع سُنَابُ وَاَسْنَابُ
السَّنَابَةُ - میت کے محاسن وغیریاں
بیان کرنا - عَرَبِيٌّ سُنَابَةٌ -
خوش بیان عرب -

السَّنَابُ - میت پر رونا ج مَنَابُ
السَّنَابِي - کم حاجت آدمی
سُنَابُ (ن) الشیء - چوڑا کرنا -
سُنَابُ حَتَّ وَاسْتَحْتَحَتِ - الغنم
فِي مَرَابِطِهَا او مَسَارِعِهَا بکریوں
کا بیٹھنے کی جگہ یا چارگاہ میں منتشر ہونا
پھولنا -

السَّنَاحُ وَالسَّنَاحُ - کشادگی کثرت
ج - السَّنَاحُ
السَّنَاحُ وَالسَّنَاحُ وَالسَّنَاحَةُ
وَالسَّنَاحَةُ - کشادگی فراخ زمین
السَّنَاحُ - بوجہ دور سے دیکھنے والی چیز
السَّنَاحَةُ وَالسَّنَاحَةُ - کشادگی
فراخی لی عن هَذَا الْأَمْرِ مُسْتَدَحٌّ
وَمُسْتَدَحَّةٌ - میں اس کام سے
آزاد ہوں - اَرْضٌ مُسْتَدَحَّةٌ
کشادہ زمین

السَّنَادُ - چوڑے لمبے میدان یا ریگستان
سُنَادُ (ن) سُنَادُ - ٹکوانا
سُنَادُ - الرجل - بڑا ٹکوانا -
السَّنَادُ - بیوقوف غبی کم گو
السَّنَادُ - بری بات کہنے یا سننے کی
پروا نہ کرنے والا -

سُنَادُ (ن) سُنَادُ وَاسُنَادُ - الشیء
نایاب و نادر ہونا کسی چیز سے گھر کر
نمایاں ہونا - مِنْ مَوْضِعِهِ - جگہ

سے ملنا - دُور ہونا - فَلَانٌ مِنْ
قَوْمِهِ نکلنا - الشجرَةُ - درخت
کی پتیاں نکلنا یا سری ہونا - الشیء
تجسّر کرنا - السَّنَابُ - بٹے کا ٹکڑا
الرجل - مرنا - اَلرَّجُلُ فِي فَضْلِ وِعِلْمٍ
آگے بڑھنا -
سُنَادُ (ن) سُنَادُ - الکلام فصيح
الکلام ہونا - عمدہ ہونا - نادر الوجود
ہونا -

السَّنَادُ - نادر بات کہنا یا کرنا -
الشیء - گرانہ - الْعُظْمُ - اپنی جگہ سے
ٹھکانا -
سُنَادُ - عَلَيْنَا عَجِيبٌ عَجِيبٌ باتیں بتانا
سُنَادُ (ن) الشیء - گرانہ -
السَّنَادُ - نادر جاننا - الْقَوْمُ - اُكْرَهُ -
پچھے جاننا -

السَّنَادُ - نادر
السَّنَادُ - کان کا سونے یا چاندی کا
ٹکڑا - (ن) - والسَّنَادُ - کیا بی
السَّنَادُ - مِنَ الْكَلَامِ - کم یا ب شاذ
و مخالف قیاس - مِنَ الْجَبَلِ - پہاڑ کا
نکلا ہوا حصہ -

السَّنَادُ - مؤنث السَّنَادُ ج - کوادر
قَوَادِرُ الْكَلَامِ - عجیب کلام شاذ
فصيح - عُمَرُ - هُوَ قَوَادِرُ الزَّمَانِ
وہ سینے روزگار ہے

السَّنَادُ - نادر - کیا ب - كَيْفِيَّةُ
سُنَادُ (ن) وَفِي سُنَادِي وَالسَّنَادُ
وَفِي السَّنَادِ - میں نے اس سے
کا ہے ملاقات کی -
السَّنَادُ - گہروں کا کلیان - کلیان -
ج - السَّنَادُ -

السَّنَادُ - مرنے والی
سُنَادُ (ن) سُنَادُ - بالمرحہ نیزہ مارنا
- ہیکٹہ کسی کے بارے میں کوئی

کلمہ کہہ دینا - سُنَادُ (ن) بِهَذَا رَضَى
زمین پر کچا پڑنا - هَعَنَ الطَّرِيقَ
راستہ سے الگ کرنا - عَلَيهِ الطَّلَقُ -
کسی پر بدگامی کرنا - اَلْأَرْضُ بِرَجْلِهِ
زمین پر پاؤں مارنا -

سُنَادُ (ن) سُنَادُ - اَلْغَلَامُ -
سمجھدار و ہوشیار ہونا - صفت -
(سُنَادُ و سُنَادُ و سُنَادُ)
سُنَادُ (ن) - ایک دوسرے کو نیزہ مارنا -
سُنَادُ (ن) - گھر پڑنا - پھوٹنا - کنوئیں کے
پانی کا بہنا - الرَّجُلُ الْأَخْبَارُ
وَعَنِ الْأَخْبَارِ - خبروں کی جستجو
میں رہنا -

سُنَادُ (ن) - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کو بڑا
بھلا کہنا

السَّنَادُ - مع - ہلکی پست آواز - آہستہ
آواز کو جلد سننے والا -

السَّنَادُ - سمجھ و ذہنی -
السَّنَادُ - چست و چالاک عورت
السَّنَادُ - گریلا -

سُنَادُ (ن) سُنَادُ - الشیء - بوجھ کرنا - الْقَطَنُ - رُوئی و صفا
الشیء - بوجھ کرنا - الْقَطَنُ - رُوئی و صفا

سُنَادُ (ن) سُنَادُ - الْقَطَنُ - رُوئی و صفا
السَّنَادُ - رُوئی و صفا
السَّنَادُ - رُوئی و صفا
السَّنَادُ - رُوئی و صفا

سُنَادُ (ن) سُنَادُ - رُوئی و صفا
السَّنَادُ - رُوئی و صفا
السَّنَادُ - رُوئی و صفا
السَّنَادُ - رُوئی و صفا

سُنَادُ (ن) سُنَادُ - رُوئی و صفا
السَّنَادُ - رُوئی و صفا
السَّنَادُ - رُوئی و صفا
السَّنَادُ - رُوئی و صفا



— ہ بالرمح أو الكلاہ نیزہ مارنا
بُراکنا۔ الرجل۔ عم گین کرنا تداغہ
العصر ب۔ بھوکا ڈسنا۔
تداغ۔ الصبی۔ گدگدایا جانا۔
تداغ العین۔ گوندھ ہرے آٹے
پر خشک آٹا ڈالنا۔
تداغہ۔ باہم عشق بازی کرنا۔
اتداغ۔ بڑے سلوک سے پیش آنا
اتداغ۔ اہستہ سہنا۔ مسکرانا۔
التداغ والتداغ۔ جنگلی صقر
التداغ والتداغ۔ ناخن کی
جوڑ کی سفیدی۔
المتداغ۔ نیزہ مارنے والا یا کلام سے
دکھ پہنچانے والا۔
تدات (من) تداناً۔ القطن۔ ردی
دھنا۔ بالعود أو المزمر۔
سارنگی بجانا۔ الطعام۔ کھانا کھانا
الدابة۔ جاؤر کو سختی سے ہانکنا۔
تدکت السماء بالثلج۔ آسمان
کا برف گرانا۔
تدکت (من) تداناً وتدائفاً۔
تداناً۔ الدابة۔ جاؤر کو سختی
سے ہانکنا۔ اس کا رتا میں تیزی سے
دونوں اگلی ٹانگوں کو پھیرانا۔
اتدات۔ برہٹ کی آواز کی طرف مائل ہونا
۔ الدابة۔ جاؤر کو زور سے ہانکنا
الكلب۔ کتے کو پلانا۔
تدات تدائفاً۔ القطن۔ دھنا
المتداغ۔ تھوڑا سا دودھ۔
التدات۔ ردی دھنے والا۔ برہٹ
نواز۔ بہت کھانے والا۔
التداغ۔ ردی دھنے کا پیشہ
المتداغ۔ دھتی ہوئی ردی۔
المتداغ والمتداغ۔ ردی دھنے
کی کمان۔

تدال (من) تدالاً۔ الشی۔ کھینچنا۔
جدی سے ایک لینا منتقل کرنا۔
الدلو من البئر۔ ڈول کنویں
سے نکالنا۔ بکھڑ۔ پانچا نہ کرنا۔
تدال (من) تدالاً۔ یکاؤ۔ ہاتھ
کا میلا ہونا۔
تدال وتمدل۔ بالمندیل رومال
یا تولیہ سے پونچنا۔ رومال سر
پر بیٹنا۔
امتدل۔ المال۔ برداشت کرنا۔
التدل۔ میل کچل۔
التدل۔ کھانا کھانے والے خادم۔
المتدل۔ موزہ خوشبودار کھڑی۔
ج متادل۔
المندل والمندیل۔ رومال۔ تولیہ ج متادل ومتادل
تد (من) تدماً وتداً۔ امہ۔
تدماً۔ علی ما فعل کئے پر نام
و پشیمان ہونا۔
اتدامہ۔ پشیمان کرنا۔
تدامہ۔ تداً۔ تداً۔ تداً۔
علی الشراب۔ ہم نشین ہونا۔
تدا دمر القوم علی الشراب۔
ہم نشینی کرنا۔
انتدام۔ الاہم۔ آسان ہونا۔
تدا ما انتدام۔ جو میسر ہو۔
التدام ج تدا موت وتداہ۔
التدام ج تداہی وتدامان
موت تدا ما فتہ وتدامی۔ تدام
پشیمان۔
الندمان۔ شراب پینے کا ساتھی۔
التدام۔ تیز طبیعت۔ دانا۔ زیرک
التدام۔ مہم۔ اثر۔ نشان۔
النکیم والنکیمۃ۔ شراب پینے میں
ساتھی۔ رفیق و ساتھی ج تداہ۔

وتداماً وتدامان۔
المتدام۔ ندامت۔ پشیمانی۔
المتدامۃ۔ باعث۔ ندامت۔
تدا (من) تداناً۔ الرجل۔ آواز دینا
الرجل۔ ڈانٹنا۔ جھوٹا۔ جھاکر
دھتکارنا۔ الابل۔ اکٹھا ہانکنا۔
انتداہ واستتداہ۔ الامر۔ کام
ذراست ہونا۔
التداہ والتداہ۔ مویشی کی کثرت
التداہ۔ آواز۔
النواذہ۔ دھکیاں۔ جھوٹکیاں۔
تدا یتدا وتدا۔ القوم۔
جمع ہوتا مجلس میں حاضر ہونا۔ القوم۔
مجلس میں جمع کرنا۔ الرجل۔ بخشش
کرنا۔ الگ ہونا۔ جدا ہونا۔ الغی۔
بکھیرنا۔
تدا یتدا یتدا وتدا۔
وتدا۔ الشی۔ کیلا ہونا۔
ترہونا۔ الارض۔ تری پہنچنا۔
۔ القوت۔ دور کی ہونا۔ کہتے ہیں
”کم یتدا مہم تدا“ ان میں سے
کوئی نہیں رہا۔
تدا یتدا یتدا۔ الشی۔ ترک کرنا۔
۔ الغرض۔ گھوڑے کو پانی پلاتا۔
گھوڑے کو دوڑا کہ سینہ سے تر کرنا
تدا یتدا۔ وتدا۔ الرجل۔
بالرجل۔ پکارنا۔ فلا تدا کسی کو
مجلس میں اپنا ہم نشین بنانا۔ معاشرت
کرنا۔ تدا یتدا۔ لیسہ۔ راز ظاہر
کرنا۔ الشی۔ دیکھنا۔ جاننا۔
فلا تدا۔ مشورہ کرنا۔ التبت۔
نباتات کا اگنا اور گجانا ہونا۔
تدا یتدا۔ الرجل۔ بڑا سخی
ہونا۔ داد و پیش والا ہونا۔ الشی۔
تر کرنا۔ الکلام۔ کلام کا مٹنے والا

یا کہنے والے کو ہر طاقت کے خوف سے
پسینہ سے تر کر دیتا۔

تَنَدَّی - الرَّجُلُ - سخی ہونا، مہربان ہونا
سیراب ہونا۔ مکان پر کسی جگہ کا تر
ہونا۔

تَنَدَّی - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کو پکارنا
(وَأَتَدَّی) الْقَوْمُ - مجلس
میں جمع ہونا وَأَتَدَّی الرَّجُلُ
مجلس میں حاضر ہونا۔ سَا تَنَدَّیْتُ
مِنْهُ شَیْئًا - میں نے اس سے کچھ بھلائی
نہیں پائی۔

التَّنَدَّی - مَصْر - بارش، گھاس، شبنم۔
تر مٹی، خوشبو، انتہاء، فیاضی، فضل
و بھلائی، چرنی، ج۔ اَتَدَّاءُ وَ اَتَدَّیَّةُ
الْبَدَاؤِ وَ الشُّعْءِ - آواز، پکار
التَّنَدَّوۃ - جماعت، مجلس
وَادُ التَّنَدَّوۃ - مقام، اجتماع
مشاورت۔ التَّنَدَّوۃ - سخاوت،
مشورہ۔

التَّنَدَّوۃ - اُونٹوں کے پانی پینے کی جگہ
التَّنَدَّی وَ التَّنَدَّی - تر گیا۔ فَلَانٌ
تَنَدَّی الْکَفَّ وَ تَنَدَّی الْکَفَّ فَلَانٌ
سخی اور فیاض ہے مَوْنَتُ تَنَدَّیَّةُ
و تَنَدَّیَّةُ - التَّنَدَّی مجلس کہتے
ہیں۔ تَنَدَّی الْقَوَّیۃ یعنی وہ دل
پسند بلند آواز والا ہے۔

التَّنَدَّیَان - گیلہ۔

التَّنَادِی - نا مجلس جہ اَنَدَّیَّة و
تَوَادِ وَ حَجَّ اَنَدَّیَات۔

اَلتَّنَادِیَّة - مَوْنَتُ التَّنَادِی - ج
نَادِیَات وَ تَوَادِ - نَادِیَاتُ الْفُجُو
چیرکی ابتدائیں۔ تَوَادِی الذَّهْرِ
حوادث زمانہ۔ التَوَادِی گوشے
منتشر اونیان۔ نَحْلُ نَادِیَّةُ
وہ کھجوریں جو پانی سے دُور ہوں۔

اَلتَّنَادِی - اَم تَفْضِیل کہتے ہیں فَلَانٌ
اَتَدَّی مِنْ فَلَانٍ فَلَانٌ

سے زیادہ فیاض و صاحب خیر ہے
هُوَ اَتَدَّی صَوْتًا مِثْلَ اُس کی
آواز اس سے زیادہ دل پیدا دیندے

اَلتَّنَادِی - مَصْر - یَوْمَ التَّنَادِ - روزِ نیا
التَّنَادِیَّة - مَصْر - تَنَدَّیۃُ الْخَیْلِ -
گھوڑوں کو چھریا بردہ بنانا اور دوڑ
کر پسینے سے تر کرنا۔

اَلْمُنَدَّی - گھوڑوں کو چھریا بردہ بنانے
کی جگہ۔

اَلْمُنَدَّیۃُ - شَرْمَاک - کلہ۔ ج
مُنَدَّیَات۔

اَلْمُنَدَّیۃُ - مجلس
تَنَدَّر (ن) تَنَدَّیۃً - رینٹ یا کھنکار
کھنکا یا پیشاب کرنا۔

اَلتَّنَدَّیۃ - ناک سے نکلی ہوئی ریش
یا سینے سے نکلا ہوا بلغم۔ رینٹ
کھنکار۔ تھوکر۔

تَنَدَّر (ن) تَنَدَّیۃً - تَنَدَّرَ اَو تَنَدَّوۃً
تَدَّرَانَا - تَدَّرَ الْجَبِیۃُ فَلَانَا
شکر نے فلاں کو دیدہ بان بنایا۔

اَلْاَلَبُ الْوَلَدُ - باپ کا بیٹے
کو خادم، کلبہ بنانا۔

تَنَدَّر (ن) تَنَدَّیۃً - تَنَدَّرَ اَو تَنَدَّوۃً
چرکنا ہونا اور تیار کرنا کہتے ہیں
تَنَدَّرُوا بِالْعَدُوِّ وَ دُشْمَنِ

سے باخبر ہو کر چوکے ہو گئے۔
اَسَدَّارَۃً بِالْاَعْمُرِ اَسَدَّارَ اَدْنِیۃً
و کَنَدَّرَ اَدْنِیۃً اَو سَدَّرَا -

واقف کرنا باخبر کرنا اور تاج سے
ڈرانا۔

تَنَدَّارَ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کو شرو
برائی سے ڈرانا۔

اَسَدَّارَ - عَلٰی تَفْصِیۃ کَنَدَّارَ اَدْنِیۃً

اَلتَّنَدَّرِ مَصْر - تَاوَان - زخم۔ اُس کے لئے
مانی ہوئی چیز جہ تَنَدَّر

اَلتَّنَدَّرِی وَ اَلتَّنَدَّرُوا لِنَدَّارَۃً اَو اَلتَّنَدَّرَا
اَلتَّنَدَّرِی - مَصْر - اَم یعنی انداز۔ طواریا۔
قاصد۔ بڑھا پا جہ تَنَدَّر۔

اَلتَّنَدَّرِیۃ - نذرین دیا ہوا۔ شکر کا
دیدہ بان جگہ فوج کی دیکھ بھال کرنے
والی جماعت ڈرانا جہ تَنَدَّرِیۃ۔

اَلْمُنَدَّرِی - فَا - ڈرائے والا۔ اَو اَلْمُنَدَّرِی
مَرَع - اَبْنُ الْمُنَدَّرِ - حیرہ کا ایک
بادشاہ کی کنیت جس کا نام نعمان تھا۔

اَلْمُنَدَّرِیۃ - شَامَان حیرہ۔
اَلْمُنَدَّرِی - شیر۔

تَنَدَّر (ن) تَنَدَّیۃً - اَلْمَاءُ اَو الْعَرَقُ -
پانی یا پسینہ کا ٹکڑا۔

اَلتَّنَدَّرِیۃ - پانی وغیرہ کا قطرہ
تَنَدَّر (ن) تَنَدَّیۃً - تَنَدَّرَ اَو تَنَدَّوۃً
خسیس و حقیر ہونا۔ دین و حسب میں
گرا ہوا ہونا۔ صفت تَنَدَّر جہ

اَسَدَّال وَ تَنَدَّرِیۃً جہ
تَنَدَّرِیۃً - تَنَدَّرِیۃً -

اَلتَّنَدَّرِیۃ وَ اَلتَّنَدَّرِیۃ - تَنَدَّرِیۃً - واحد
تَنَدَّرِیۃً۔

اَلتَّنَدَّرِیۃ وَ اَلتَّنَدَّرِیۃ - تَنَدَّرِیۃً - ناریل۔
واحد (ن) تَنَدَّرِیۃً (ن) تَنَدَّرِیۃً
حقہ عوام اس کو اریکے کہتے ہیں۔

اَلتَّنَدَّرِیۃ - کھجور کے پتوں کا پھیلا جو نیچے
کی جانب سے چوڑا ہوتا ہے۔ ایک
قسم کا کھیل۔

اَلتَّنَدَّرِیۃ وَ اَلتَّنَدَّرِیۃ - تَنَدَّرِیۃً - بنل روی
اَلتَّنَدَّرِیۃ وَ اَلتَّنَدَّرِیۃ - تَنَدَّرِیۃً - لیوں۔

تَنَدَّر (ن) تَنَدَّیۃً - تَنَدَّرَ اَو تَنَدَّوۃً
المکان - بہت چٹھوں والی جگہ ہونا

تَنَدَّرِیۃً - تَنَدَّرِیۃً - تَنَدَّرِیۃً - تَنَدَّرِیۃً
کا حرکت کرنا۔ تَنَدَّرِیۃً - تَنَدَّرِیۃً



دور ہونا۔ اکیلا ہونا۔ (نَزِيدًا) لگتی
ہرن کا دور ہونا۔ آواز نکالنا۔ اَنْزَا
الشیءَ چیز کا سخت ہونا۔
نَزَرَ۔ فَلَا تَأْتِنِ كَذَا۔ پاک رکھنا
دور کرنا۔ ہرن کا بچہ کو پرورش
کرنا۔

نَاَذَرَهُ مَنَازَرَةً۔ خیر میں مقابلہ کرنا۔
النَّزْوَالُ النَّزْوُ۔ زمین سے پھوٹ کر
نکلنے والا پانی۔ جہ نَزْوُوزُ
النَّزْوُ والنَّزْوُ۔ جست۔ نیز فہم۔
خوش طبع۔ ایک جگہ نہ ٹھکنے والا۔
رَجُلٌ نَزْوُ شَرٌّ۔ برائی کی طرف
میلان رکھنے والا آدمی۔

النَّزْوَةُ۔ اسم مرقہ۔ بہت خواہش۔
نَاَقَةٌ نَزْوَةٌ۔ سبک ادشتی۔
النَّزَارُ۔ جھگڑا کرنا۔ مقابلہ کے طریقہ
پر کسی شے کی طرف رغبت کرنا چھٹنا
النَّزِيْزُ۔ ہلکا پھلکا۔ بچلا نہ رہنے والا
خوش طبع۔ خواہش مند

النَّزْوُ۔ بہت حرکت کرنے والا گھوڑہ
نَزَا رَنَ نَزْوًا وَنَزْوًا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ
قوم کو بھڑکانا اور فساد ڈالنا۔
(نَزَا) عَلَى فُلَانٍ۔ حملہ کرنا۔
فَلَا تَأْتِ عَلَيَّكَ۔ برخلاف اکسانا
ہے عَنْ كَذَا۔ شوقین ہونا صفت
مفعول (مَنْزُومٍ) یہ۔

رَجُلٌ نَزْوٌ۔ بہت شیفہ فریفتہ
النَّزْوِيُّ۔ چھوٹی مشک
نَزَبَ (رَضَ) نَزْبًا وَنَزْبًا وَنَزْبًا
النَّبِيُّ۔ ہرن کا آواز نکالنا۔

نَزَابٌ۔ بالآلقاب۔ ایک دوسرے
کو بڑے لقب دینا۔
النَّزَبُ۔ لقب جہ انزَابُ۔
النَّزَبُ۔ زہرن۔ بیل۔
نَزَبَ رَنَ نَزْبًا۔ الغلام روطہ کے

کانا چنا۔
نَزَحَ (رَنَ) نَزْحًا وَنَزْوَحًا۔ دور ہونا۔
نَزَحَتِ الْبُتُورُ کنویں کے پانی کا بہت
کم ہونا یا بالکل ختم ہونا صفت (نَزَحَ
وَنَزْوَحَ وَنَزَحَ) مَاءٌ لَا يَنْزَحُ
نہ ختم ہونے والا پانی۔ (وَأَنْزَحَ)
الْبُتُورُ کنویں کا پانی اتنا نکالنا کہ بہت
کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے القَوْمُ
قوم کے کنوؤں کا پانی کم ہونا۔

نَزَحَ۔ بَغْلَانِ اپنے وطن سے بہت دور
چلا جانا۔

انْتَزَحَ۔ عَنْ دِيَارِهِ۔ اپنے وطن سے
دور ہونا۔

تَنَازَحَ۔ دُور ہونا۔
النَّزَحُ۔ گدلا پانی۔ وہ کنواں جس کا اکثر
پانی نکال لیا گیا ہو یا پانی اس میں بالکل
نہ ہو ج۔ اَنْزَا ح۔

النَّازِحُ وَالنَّزِيحُ وَالنَّزْوَحُ۔ دور
المُنْتَزَحَ۔ دوری۔ قَوْمٌ مَنَازِيحُ۔ اپنے
وطنوں سے دور آفادہ۔

المُنَازَحَةُ۔ ڈول جہ مَنَازِحُ۔
نَزَسَا (رَنَ) نَزْرًا۔ سوال کرنے میں مراد
کرنا۔ جلدی کرنا۔ نَزَرَ الشَّيْءَ۔

کم سمجھنا۔ فَلَا تَأْجُحْ دُنَا جَحْمَ دُنَا جَحْمَ
جاننا۔ تھوڑا تھوڑا وصول کرنا۔
الشَّرَابُ مُلَانًا۔ شراب کا کسی کو
مست کرنا۔

نَزَرَ رَنَ نَزْرًا وَنَزْرَةً وَنَزَارًا وَ
نَزَارَةً وَنَزْوَرَةً۔ کم ہونا۔
(نَزَارَةً) الْوَجْلُ۔ بے برکت ہونا

النَّاقَةُ۔ اونٹنی کا دودھ کم ہونا
نَزَرَ وَانْزَرَ۔ الْعَطَاءُ عطیہ تھوڑا دینا
تَنَزَّرَ۔ الشَّيْءَ کم ہونا۔ تَنَزَّرَ مِنَ الشَّيْءِ
کم لینا۔

النَّزْرُ وَالنَّزِيرُ۔ بہت کم۔ نَزِيرُ کی

جمع نَزْرُ۔ رَحْلٌ نَزْرٌ۔ کم خیر آدمی
النَّزْرُ۔ اونٹنی کے گھن کا دھرم۔
النَّزْرَةُ وَالنَّزْوَرُ۔ مِنَ الْتِسَاءِ۔
تھوڑے بچوں یا کم دودھ والی عورت
النَّزْوَرُ۔ کم گو۔ تھوڑی چیز جہ نَزْرُ
النَّزْوَرُ۔ بہت کم

نَزَعَ رَضَ نَزْعًا۔ الشَّيْءَ مِنْ مَكَانٍ۔
اکھیرنا۔ الْأَمِيرُ الْكَلِيلُ معزول کرنا
بالسِّمِّ۔ تیر پھینکنا۔ فِي الْقَوَسِ
کمان کھینچنا۔ عَنْ الْقَوَسِ کمان سے
پھینکنا۔ الدُّوْ وَبِالدُّوْ۔ ڈول
نکالنا۔ کھینچنا۔ يَدُهُ مَا تَهْتَكُ بِيَانٍ
سے نکالنا۔ الشَّمْسُ۔ سورج کا
مغرب کی طرف پھینکا۔ الْكَرْبُفُ۔
قریب المرگ ہونا۔

نَزَعَ رَضَ نَزْوَعًا۔ عَنْ كَذَا۔ رُكْنَا
بَارَزْنَا۔ أَلْوَدَ آبَاءُ دَالِي أَبِيهِ۔
مشابہ ہونا۔

نَزَعَ رَضَ نَزْعًا وَنَزْوَعًا۔ إِلَى
أَهْلِهِ۔ مَشَاقَ هَوْنًا۔ نَزَاعًا
إِلَى الشَّيْءِ جاتا "لَهُ نَزْعَةٌ" إِلَى
كَذَا" اس کا فلاں چیز کی طرف میلان
ہے لِفُلَانٍ إِلَى كَذَا۔ بلانا۔

نَزَعَ رَضَ نَزْعًا۔ كُنْطِيَّوْنَ سے گنجا ہونا
صفت رَانُوعٌ مؤنث نَزْعَاءُ
نَزَعَ نَزَاعًا۔ الْمَرْيَقُ۔ قریب المرگ
ہونا۔ نَزَاعَةُ نَزَاعًا وَمَنَازَعَةُ

جھگڑنا۔ نَزَاعَةُ التَّوْبِ۔ کپڑا
پکڑ کر کھینچنا۔ أَرْضِي تَنَازَعًا
أَرْضَكُمْ۔ میری زمین تھاری زمین سے
متصل ہے نَزَعَ إِلَى أَهْلِهِ۔

مَشَاقَ هَوْنًا۔ فَلَانًا۔ مصافحہ کرنا۔
الْكَاسُ۔ پیالہ دینا۔
نَزَعَ الشَّيْءَ مِنْ مَكَانِهِ۔ چیز کو اس کی
جگہ سے اکھیرنا۔



النَّازِقُ - فا - عِزِّي نَازِقٌ - رگ جس سے خون جاری نہ ہو ج - نُزِقَ النُّزُقَةُ - پانی وغیرہ کی تھوڑی مقدار النُّزُوفُ - گناہ جس کا سبب پانی ہونے سے نکال لیا گیا ہو -

نَزَاتٍ - اسم نعل بمعنی امر سب پانی کا النَزِيفُ وَالْمُنْزُوفُ - زیادہ خون جاری ہونے سے کمزور - پیاس سے خشک زبان والا - النَزِيفُ - مدت تب والا - المنزوف بے عقل -

الْمُنْزُوقَةُ - جس سے پانی نکال جائے نَزَقِي (س) نَزَقًا وَنَزُوقًا - الرجل غصہ سے خفیف العقل ہونا - طبع میں آنا - صفت (نَزَقِي) مومن نَزَقَ - (نَزَقًا) الاناء - برتن کا نادرں تک بھرنا -

نَزَقِي (س) وَنَزَقِي (ن) نَزَقًا وَنَزُوقًا - الفرس گھوڑے کا کودنا - اچھلنا -

نَزَقِي (ن) نَزَقًا - الاناء - برتن بھرنا نَزَقِي وَآشَرَقِي - الفرس گھوڑے کو کودانا - آشَرَقِي الرجل في الصلحہ بہت ہنسنا - فُلَانٌ عقل کے بعد کم عقل ہونا - النِّعِيمُ فُلَانًا سبکی پر برا بھلا کہنا -

نَازِقَةُ نَزَا نَزَا وَمَنَازِقَةُ - قریب ہونا - لگائی دینا -

تَنَازَقًا - ایک دوسرے کو گالی دینا - التَّنَازِقُ - مصر سبکی جہات و حماقت سے جلد بازی - مَكَانٌ تَنَزَقٌ - قریب جگہ -

النُّزُقَةُ - اسم مرہ - دودھ کا آغاز التَّنِيزُوقُ - چھوٹا نیزہ - ج نِيَاذِقُ النِّزَاقُ وَالنُّزُقَةُ - مِنَ السُّوقِ سرکش اونٹنی -

النَّازِقَةُ - بہت باتیں کرنے والا - نَزَاكَ (ن) نَزَاكَ - نیزہ مارنا عیب لگانا بڑا کتنا - ناحق بات کہنا النُّزَاكُ وَالنُّزَاكُ عیب لگانے والا النُّزِيكَاتُ - شریر لوگ -

النُّزُوكُ - چھوٹا نیزہ - ج نِيَاذِقُ نُوْثُنُے والے شارے

نَزَل (ن) نَزُولًا اُتَرنا - بہ اُتَرنا - بہ الامر - واقع ہونا - فُلَانٌ عَنْ الْحَقِّ - اپنا حق چھوڑ دینا -

نَزَاكَ (ن) سقر کرنا نَزُولًا وَنَزُولًا مَنَزَلًا وَمَنَزَلًا الْعَقُومُ بِالْعَقُومِ وَهِيَ الْعَقُومُ کسی کے ہاں مہمان اُتَرنا نَزَل (س) نَزَلَةً - الرجل - زکام ہونا (نَزَلًا) النَزْعُ کھینچ کا بڑا حسنا - اَلْمَكَانُ جھینچ کی وجہ سے تھوڑی بارش سے بننے والی جگہ ہونا -

نَزَلَهُ - اُتَرنا - نَزَلَهُ مَرْتَبًا کرنا الشیء مَرَّتًا كَانَتْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ - انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل فرماتا - الْعَقُومُ منازل میں اُتَرنا - الْحَاسِبُ الرَّقْمِ رقم لکھنا -

أَنْزَلَ أَنْزَالًا وَمُنْزَلًا - الشیء اُتَرنا أَنْزَلَ الصَّيْفَ - مہمان اُتَرنا اللَّهُ وَالْكَلَامَ - وحی نازل فرماتا - أَنْزَلَ حَاجِبَهُ عَلَى كَرِيمٍ اس نے کریم و فیاض سے اپنی حاجت روائی کی درخواست کی -

نَزَلَهُ نَزَالًا وَمَنَازِلَةً - فِي الْحَرْبِ مقابلہ پر اُتَرنا اور قتال کرنا -

حَارِبُوا بِأَنْزَالٍ - دونوں فریقوں کا اونٹوں سے اُتر کر گھوڑوں پر چڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا - تَنَازَلُ - الْعَقُومُ - اونٹوں سے اُتر کر

گھوڑوں پر سوار ہونا اور ہوتا - میدان جنگ میں اُتر کر معروف بہر پکار ہونا - الْعَقُومُ فِي السَّفَرِ - کبھی اس کے پاس کھانا اور کبھی اس کے پاس -

تَنَزَّلَ - ٹھہر ٹھہر کر اُتَرنا - عَنِ الْحَقِّ - حق چھوڑنا - تَنَزَّلَ فُلَانٌ - اُتَرنا - اُسٹَنَزَلَهُ - اُتَرنا - اُسٹَنَزَلَهُ عَنْ رَأْيِهِ اَوْ حَقِّهِ - رائے یا حق سے نیچے اُترنے کے لئے کہنا اُسٹَنَزَلَ فُلَانٌ مَرْتَبَةً

سے اُتارنا جانا - عہدہ سے ہٹ کر کیا جانا النُّزُلُ وَالنُّزُلُ - مہمان کا کھانا ج - اَنْزَالَ - اَلنُّزُلُ - برکت والا کھانا العنزل - اُترنے والے لوگ -

النُّزُلُ وَالنُّزُلُ وَالنُّزُلُ - فصل کی تھو کھینچ کی بالیدگی - داد و پیش و فضل النُّزُلُ - بارش - رَجُلٌ ذُو نَزَلٍ بہت فضل و برکت اور بخشش والا - ج اَنْزَالَ وَأَنْزَالَ الْعَقُومَ - رقم کی رودیاں -

النُّزُلُ - جمع شدہ - النُّزُلُ - وہ مکان جہاں اکثر و بیشتر اُتریں - سخت جگہ جہاں سیلاب جلد آئے -

النُّزُلَةُ - نَزَلُ کا اسم مرہ - نَزَلَةً اُخْطِی - دوسری مرتبہ - زکام نزلہ اَرْضُ نَزَلَةٍ - اچھی کھیتی کی زمین ج نَزَلَاتٌ کہتے ہیں نَزَلَاتُهُمْ عَلَى نَزَلَاتِهِمْ وَنَزَلَاتِهِمْ میں نے ان کو اچھی حالت ہی چھوڑا -

النُّزَالَةُ - جگہ کا سختی کے باعث تھوڑی سی بارش سے بہہ پڑنا -

النُّزَالَةُ - سفر - ضیافت - کُنَّا فِي نَزَالَةٍ فُلَانٌ - ہم فلاں کی مہمانی میں تھے - فُلَانٌ مِنْ نَزَالَةِ سُوَيْحٍ - فُلَانٌ لَيْمٍ باپ سے ہے -

أَنْزَالَةً - مَوْنَتُ النَّاظِلِ یعنی معیت



نَسَبًا تَنْسِبُهُ - المَدَابَّة - مَوَات كَرَامَت -
 اَنْتَسَبَ عَنْهُ - پیچھے ہونا -
 اَنْتَسَبَاتُ الْاَبِلِ فِي الْمَرْعَى اَوَّلًا
 کا چرگاہ میں دور نکل جانا -
 اُسْتَنْسَبَا - عَزِيمَةً - قَرْضَاہ سے
 مہلت مانگنا -
 النَّاسِي - فا - موٹا جانور یا انسان -
 ج نَسَاة
 اَلنِّسَاء - عمر کی درازی
 اَلنَّسْنَس - مہر بہت پانی والا دودھ -
 عقل زائل کرنے والی شراب موٹا پا -
 یا اُس کا آواز -
 النَّسْنَسُ - گھل کر رہنے والا آدمی -
 اَلنُّسْنَةُ وَ اَلنَّسْنِيَّةُ - مہلت -
 تاخیر -
 النَّسْنَسُ - تاخیر بہت پانی کا دودھ -
 اَلْمُنْسَاةُ وَ اَلْمُنْسَاةُ وَ اَلْمُنْسَاةُ
 جِوَاہ کا بڑا ٹنڈا -
 نَسَبَ (ن ص ن) نَسَبًا - وَ نَسَبَةً -
 الرَّجُلُ - نسب بیان کرنا - نسب
 دریافت کرنا - نَسَبًا اِلَى فُلَانٍ
 منسوب کرنا - (ن - نَسَبًا وَ نَسَبًا
 وَ مَنَسِبَةً) الشَّاعِرُ بِالْمَرْأَةِ
 تشبیہ کرنا - غزل میں عورت کی
 خوبی بیان کرنا
 نَسَبَةً مِّنْ نَّسَبَةٍ - مشابہ کرنا -
 نسب میں شریک ہونا -
 تَنَسَّبَ الرَّجُلُ - اَلَيْدُ - خاندان
 یا نسب میں ہونے کا دعویٰ کرنا -
 تَنَسَّبَا - باہم مشابہ ہونا - تَنَسَّبَا
 اَلْقَوْمُ اِلَى اَخَصَائِهِمْ - منسوب
 ہونا -
 اَنْتَسَبَ الرَّجُلُ - نسب ظاہر کرنا
 - اِلَى اَبِيہ منسوب ہونا -
 اِسْتَنْسَبَ - نسب بیان کرنا - الرَّجُلُ

نسب پر چھنا -
 اَلنَّسَبُ - قرابت - رشتہ داری - ج
 اَنْسَاب -
 اَلنَّسَبَةُ وَ اَلنَّسَبَةُ - قرابت
 دو چیزوں کے درمیان ربط و تعلق -
 اعداد کے درمیان کی نسبت -
 اَلنَّسَبِيَّةُ - مہر مناسب قرینی -
 رشتہ دار خاندانی - عورتوں کے
 متعلق لطیف شعر ج: اَلنَّسَبَاءُ وَ
 نَسَبَاءُ -
 اَلنَّسَابَةُ - رشتہ داری -
 اَلنَّسَابُ ج نَسَابُونَ وَ اَلنَّسَابَةُ
 ج نَسَابَاتٌ - نسب کا علم
 رکھنے والا - شجرہ کا جاننے والا -
 اَلْاَنْسَابُ - زیادہ مناسب - زیادہ -
 لائق - زیادہ آرام دہ -
 اَلْمُنَاسِبُ - فا - مشابہ - رشتہ دار
 اَلْمُنَسُوبُ - مفعول - عشقہ غزل ج -
 مَنَاسِبُ -
 نَسِيبٌ - بَیْنَهُمَا - چغلیوری کے لئے
 دوڑ و دوپ کرنا -
 اَلنَّسِيبُ - چوٹیوں کی قطاریاں
 کا راستہ - (وَ اَلنَّسِيبَانِ) سیدھا
 واضح راستہ -
 النَّاسُوتُ - انسان - انسانی فطرت
 نَسَبَ (ن ص ن) نَسَبًا - اَلنَّسَبُ -
 کپڑا بننا - اَلْاَلَامُ - کلام کو مختص
 کرنا - آراستہ کرنا - اَلشَّاعِرُ
 اَلشَّعْرُ - شعر نظم کرنا - اَلْاَنْثُ
 اَلنَّبَاتُ - بارش کا نباتات کو گنجانا
 اَلْاَلَامُ - نَسَبَتِ الرَّجُلُ اَلْاَلَامُ
 اَو اَلْاَلَامُ - ہو کا پانی یا ریت پر
 نہریں پیدا کرنا -
 اَنْتَسَبَ - مٹا جانا - دھاری والا ہونا -
 اَلنَّسَجُ - مصر - ثَوْبٌ نَسَجُ اَلْيَمَنِ

میں کا بنا ہوا کپڑا
 اَلنَّسَاجَةُ - مٹنے کا پیشہ -
 اَلنَّسَاجُ - کپڑا مٹنے والا - کلام آراستہ
 کرنے والا - جھوٹا -
 اَلنَّسِيجُ - بنا ہوا - ج نَسِيجٌ - هُوَ
 نَسِيجٌ وَ وَحْدَهُ - وہ لاثانی ہے -
 اَلنَّسِيجُ - جائے نمازیں -
 اَلنَّسِيجَةُ - مَوْت - اَلنَّسِيجُ - ج
 نَسَاجُ -
 اَلنَّسِيجُ وَ اَلنَّسَاجُ - کرگہ -
 نَسِيجٌ (ن ص) نَسَجًا - طبع کرنا ملا لچ کرنا -
 نَسِيجٌ (ن ص) نَسَجًا - اَلْاَلَامُ - مٹی بھرنا
 اَلنَّسِيجُ وَ اَلنَّسَاجُ - کھجوروں کا کوڑا
 کوٹ -
 اَلْمُنَسَاحُ - غبار اڑا دینا آلہ -
 نَسَخَ (ن ص) نَسَخًا - اَلشَّيْءُ - زائل کرنا
 - باطل کرنا - مٹ کرنا - مٹانا -
 - اَلْاَلَامُ - کتاب کو حرف برف نقل کرنا
 نَا سَخَهُ مِّنْ سَخَةٍ - ایک دوسرے کو
 محو کرنا -
 تَنَسَخَا - ایک دوسرے کو محو کرنا - ایک
 دوسرے کے پیچھے آنا - زمانہ کا پے
 درپے آنا - روح کا ایک جسم سے
 دوسرے جسم میں منتقل ہونا - مِثْلًا سَخَ
 اَلْوَرَثَةُ - میراث مٹنے سے پہلے بعض
 وارثوں کا مٹ جانا -
 اَنْتَسَخَ - اَلشَّيْءُ - زائل کرنا - اَلْاَلَامُ
 کتاب کو نقل کرنا - اَلشَّيْءُ اَلشَّيْءُ -
 ایک چیز کا دوسری چیز کے قائم مقام ہونا
 اِسْتَنْسَخَ - اَلشَّيْءُ - مِثْلًا نَسَخَهُ لَكُنْ
 کو کہنا - بَلَدًا نَسِيجًا وَ نَسِيجًا
 دُور کا شہر -
 اَلنَّسَخَةُ - نقل کی ہوئی کتاب - وہ کتاب
 جس سے نقل کی جائے - ج نَسَخٌ -
 اَلنَّاسِخَةُ - فا - کتابوں کو نقل کرنے والا -



النَّاسُ مَخْلُوقٌ مِمَّنْ - روح کا ایک بدن سے دوسرے
بدن میں منتقل ہونا - ایسا عقیدہ رکھنے
والوں کو تَنَاسُخِیَّةٌ کہتے ہیں -
نَسْرَکَ (ن) نَسْرًا - عَنَدُ - اُتَارنا -
اُوهیرنا - اَلْجُرْحُ - اَللَّحْمُ -
شکاف کر دینا - اَلرَّجُلُ - تہمت
لگانا - بگڑائی کرنا -
نَسْرَکَ (ن) نَسْرًا - اَلْبَازِجِ -
باز کا چوہے سے گوشت نوجنا -
نَسْرٌ - اَلْحَبْلُ - رسی کا بل کھونا -
تَنَسَّرَ - گدھوں کا شکار کرنا - اَلْحَبْلُ
رسی کا ٹوٹنا - اَلْجُرْحُ - زخم کا پھول
اور پھٹ کر مواد بہانا - اَلثَّوْبُ وَ
نَحْوُہُ - کپڑے وغیرہ کا گھس گھس کر
ختم ہو جانا -
اِسْتَنَسَرَ - اَلطَّائِرُ - قوت میں گدھ کی طرح
ہونا - کہتے ہیں اِنَّ اَلْبُعَاثَ بِاَرْضِنَا
لَیَسْتَنَسِرُنَّ - یعنی ہماری زمین میں گزرو
چیز بھی طاقت در ہو جاتی ہے -
اَلنَّسِیرُ - گدھ - اس کی کنیت اَبُو اَلْاَبْرَدِ
وَ اَبُو اَلْاَصْبَحِ وَ اَبُو مَالِکٍ وَ اَبُو
اَلنَّهْمَالِ وَ اَبُو یَحْیٰی ہے - مادہ کی
کنیت اَمْرٌ قَشَعْمٌ ہے ج نَسْوَسَ
وَ اَلشَّرُّ وَ لَسَادٌ -
النَّسْرُ - گھوڑے کے سُم کا اندرونی غدود -
ج نَسْوَسَ - اَلنَّسْوَانُ - دوتارے
ایک اَلنَّسْوُ الطَّائِرُ دوسرا اَلنَّسْوُ
اَلْوَاقِعُ -
النَّاسُورُ - ناسور - ہمیشہ بہنے والا زخم
ج نَوَاسِیْرُ -
اَلنَّسَارِیَّةُ - عقاب
اَلنَّسْرُ وَ اَلنَّسْرُ - شکاری پرندہ کی چوہے
بڑے لشکر کے آگے رہنے والا دستہ
فوج - ج مَنَاسِیْرُ -
اَلنَّسْرِیْنِ - گل سیوٹی -

نَسَعَتْ (ن) نَسْعًا وَ نُسُوًا وَ نَسَعَتْ
اَللَّسَانُ - دانوں کا ڈھیلے سوار ہونا
وَالَا ہونا - نَسَعٌ فَلَانٌ فِی اَلْاَرْضِ
مک میں پھرنے (نَسْوَعًا) اَلشَّیْءُ
دراز ہونا -
اَنْسَعَ - اَلرَّجُلُ - پڑوسیوں کو بہت ایذا
دینا - شمالی ہو اٹھانا -
اَنْتَسَعَتْ - اَلْاِیْلُ - اونٹوں کا چراگاہ
میں چل جانا -
النَّاسِیْعُ - نا - لمبی گردن -
النَّسْعُ - ہاتھ کا جوڑ - اونٹ کے تنگ کا
تسمہ ج نُسْعٌ وَ نَسِیْعٌ وَ نُسُوْعٌ
وَ اَنْسَاعٌ - اَنْسَاعٌ - اَلطَّرِیْقُ راست
کے نشانات -
النَّسْعُ وَ اَلرَّیْحُ اَلنَّسِیْعِیَّةُ وَ اَلْمِنْسَعُ
شمالی ہوا -
النَّسْوُ مِمَّنْ - لمبائی
اَلنَّسْعَةُ - لمبی بناات والی زمین -
نَسَعَتْ (ن) نَسْعًا - اَللَّبَنُ بِالْمَاءِ - دودھ
میں پانی ملانا -
نَسَعَتْ بِالْمَسْوِیْطِ چابک مارنا - ہ
بَکَا - تہمت لگانا - ہ بَکَلَمَةً
مَعْنً وَ تَنْسِیْعُ کرنا - اَلْمُجْدَزَةُ - روٹی
پر پوسے وغیرہ سے گودنا - فِی اَلْاَرْضِ
جانا -
نَسَعَتْ وَ نَسَعَتْ - اَسْتَأْنَتْ دانتوں
کی جڑیں ڈھیل پڑنا - نَسَعَتْ
اَلشَّجَرَةَ کٹنے کے بعد درخت کا
بھوٹ آنا - نَسَعَتْ - نیزہ مارنا -
اَنْتَسَعَتْ - اَلْاِیْلُ - اونٹوں کا چراگاہ
میں بکھ جانا - اَلرَّجُلُ - سوچ بچار کرنا
النَّاسِیْعُ - نا - رَجُلٌ نَاسِیْعٌ - نیزہ باز
میں ماہر - ج نُسْعٌ -
النَّسْعُ - کٹے ہوئے درخت سے بہنے والا
پانی

النَّسِیْعُ - پسینہ -
اَلنَّسْعَةُ - خیم گودنے کا آلہ - یاروٹی
گودنے کی چیز
نَسَفَتْ (ن) نَسْفًا - اَلْبِنَاءُ عمارت کو
جڑ سے اکھڑنا - اَلْجِبَالُ - پہاڑوں
کو گرانا - اَلشَّیْءُ چھاننا - اَلْحَبُّ
بِاَلْمِنْسَفِ - غلہ کو ہجاج سے پھٹنا -
رَ - وَ اَنْسَفَتْ - اَلرَّیْحُ اَلزَّارِبُ - ہوا کا ٹپ
کو اکھڑنا - اُڑانا -
نَسَفَتْ (ن) نَسْفًا وَ نُسُوًا - دانت سے
کاٹنا - نَسَفَ اَلْاِنَانُ - برتن کا بھر
بہر جانا -
اَنْتَسَفَ - اَلْبِنَاءُ - یعنی نَسَفَ اَلشَّیْءُ
اکھڑنا
اَنْتَسَفَ اَلْکَلَامُ - کان میں بات بتانا -
اَنْتَسَفَ - کَوْنُہُ - رنگ متغیر ہونا -
تَنْتَسَفَ - فِی الصَّرَاعِ کشتی میں بھاڑنا
اَلنَّسْفَةُ وَ اَلنَّسْفَةُ - پاؤں اٹھنے کا
بھاواں - ج نَسَفَ وَ نَسَفَ وَ
نَسَفَ وَ نَسَفَ -
اَلنَّسَاقَةُ - غلہ کا پھوڑنا - دودھ کے جھاگ
زمین کا غبار -
اَلنَّسِیْفُ - عہد - کَلَامٌ نَسِیْفٌ پوشیدہ
گفتگو - شَیْءٌ نَسِیْفٌ چھانی ہوئی چیز
اَلنَّسُوْتُ - اونٹ جو گھاس کو جڑ سے اکھڑ
لے ج مَنَاسِیْفُ
اَلنَّسْفَانُ - مِیْنُ اَلْاَنِیَّةِ - بھر کر بہنے والا
برتن -
اَلْمِنْسَفُ وَ اَلْمِنْسَفُ - گرے کی تھوٹی
ج مَنَاسِیْفُ -
اَلْمِنْسَفُ - ہجاج - سوپ
اَلْمِنْسَقَةُ - چھلنی عمارت اکھڑنے کا آلہ
نَسَقَتْ (ن) نَسَقًا - اَلدَّرُّ وَ نَحْوُہُ - مرقی
وغیرہ پڑنا - اَلْکَلَامُ - کلام کو ترتیب دینا
نَسَقَ - اَلشَّیْءُ - ترتیب دینا تنظیم کرنا -

نَاسِقٌ - بَيْنَهُمَا - ایک دوسرے کے چھپے
 چلنا - قطار میں چلنا -
 اُنْسِقُ - الرَّجُلُ - سبج کہنا
 اُنْسَقْتُ وَتَنَاسَقْتُ وَتَنَسَقْتُ
 الْأَشْيَاءُ - بالترتیب ہونا نظم میں ہونا
 ہونا - تَنَاسَقَ كَلَامُهُ - کلام کا ترتیب
 دار ہونا صفت متناسق -
 النِّسْقُ - بالترتیب - جَاءَ الْقَوْمُ دَجَازَاتٍ
 الْخَيْلُ نَسَقًا - لوگ بالترتیب آئے گھوڑے
 بالترتیب آئے غَرَسْتُ الْخَيْلَ نَسَقًا
 میں نے گھوڑے کے درختوں کو ایک قطار
 میں لگایا - حُرُوفُ النِّسْقِ وَالنِّسْقِ
 حروف عطف -
 النِّسْقُ - بالترتیب
 نَسَكْتُ (ن) نَسَكًا وَنَسَكًا وَنَسَكًا
 نَسَكًا وَنَسَكًا وَنَسَكًا وَنَسَكًا
 مَنَسَكًا - الرَّجُلُ - زاہد ہونا، درویش
 بننا - بَدَّ خَدَاكَ لِمَنْ قَرَّبَانِي كَرَنًا -
 نَسَكًا الْوُثْبُ - کپڑے کو دھو کر پاک کرنا
 - الْبَيْتُ - گھر میں آنا - إِلَى كَلْبِ الْوَيْقَةِ
 جَمِيلَةٍ - مدامت کرنا -
 نَسَكْتُ (ك) نَسَاكَتٌ - درویش بننا -
 تَنَسَكَتْ - عِبَادَتِ - خدا تعالیٰ کا ہر
 ایک حق - اَلنَّسَكُ - مانوس جگہ -
 اَلنُّسْكُ وَالنُّسْكُ - نَذْر جوارہ کے
 لئے پیش کی جائے - ذبیحہ -
 اَلنُّسْكُ - چاندی کا ٹکڑا - خون
 اَلنَّسِيكُ - سونا - چاندی
 اَلنَّسِيكَةُ - ذبیحہ - سونے چاندی کا
 ٹکڑا ج نَسَايِكُ -
 اَلنَّاسِكُ - فَا - عابد - زاہد ج نَسَاكُ
 عَشْتُ نَاسِكٌ - بہت سبز گھاس
 اَرْمَنُ نَاسِكَةٌ - تازہ بارش والی
 سرسبز زمین -
 اَلْمَنَسِكُ - مانوس جگہ (و اَلْمَنَسِكُ)


قربانی کی رسم - قربانی کی جگہ ج :
 مَنَاسِكٌ - مَنَاسِكُ الْحَجِّ -
 حج کی عبادت -
 اَلْمَنَسُوكُ - مَفْعٌ ثَوْبٌ مَنَسُوكٌ -
 پانی سے دھوا ہوا پاک کپڑا - چھوٹے
 بالوں والا نام گھوڑا -
 نَسَلُ (ن) نَسَلًا - اَلصُّوْفُ اَوِ الرِّيشُ
 جھاڑنا - گرنا - اَلْوَلَدُ دَيَا لَوَلَدٍ
 جننا - الرَّجُلُ - بہت اولاد والا
 ہونا -
 نَسَلُ (ن) نَسُولًا - اَلرِّيشُ اَوِ الصُّوْفُ
 پر یا اون کا جھڑنا گرنا -
 نَسَلُ (ن) نَسَلًا وَنَسَلًا وَنَسَلًا
 - فِي مَشِيءٍ تَبْرَحَانِ -
 اَنَسَلُ - اَلصُّوْفُ اَوِ الرِّيشُ - اُونِ يَا
 پر گرنا - اَلصُّوْفُ - اون گرنا -
 اَلْوَلَدُ اَلْوَلَدُ - پیدا کرنا - فِي
 عَدَاوَةٍ - تیز دوڑنا - اَلْقَوْمُ :
 آگے بڑھنا - الدَّايَةُ - جانور کے
 بال گرنے کا زمانہ قریب آنا -
 تَنَاسَلُ - اَلْقَوْمُ - بعض کا بعض سے
 پیدا ہونا - پیدائش سے تعداد میں بڑھنا
 اَلنَّسَلُ - مِم - خلی - اولاد - ذریت -
 ج اَنَسَالُ
 اَلنَّسَلُ - مِم - تھن سے خود بخود نکلنے والا
 دودھ - سبز انجیر سے نکلنے والا دودھ
 اَلنُّسَالُ وَالنَّسِيلُ - گرے ہوئے پر یا
 بال یا اون - واحد نَسَالَةٌ
 اَلنَّسِيلَةُ - بچہ - بچی - شہد جو چھپتے سے
 بہر نکلے -
 اَلنَّسُولَةُ مِنَ الْمَوَاتِي - نسل بڑھنے
 کے لئے مویشتی - بہت نسل والے پریش
 اَلنَّاسِلُ - فَا - تیز رفتار ج نَسَلٌ -
 اَلنَّسُولُ وَالنَّسَالُ - تیز دوڑنے والا
 نَسَمَ (ر) نَسَمًا - اَلْبَيْعُ اَلْأَرْضِ

بُخْفَمٌ - اونٹ کا زمین پر پاؤں مار کر
 نشان ڈالنا -
 نَسَمْتُ (ر) نَسَمًا وَنَسَمًا وَ
 نَسَمًا - اَلْبَيْعُ - ہوا کا آہستہ
 چلنا - نَسَمًا وَنَسَمًا - (ر)
 نَسَمًا اَلشَّيْءُ - میٹھڑ ہونا -
 نَسَمَ (ك) نَسَامَةً - اَلْمَكَانُ جِگہ کا
 بہت چشموں والی ہونا -
 نَسَمَ - فِي الْأَرْضِ شروع کرنا - اَلشَّمَّةُ
 زندہ کرنا - آزاد کرنا - اَلْأَسِيرُ رُكْنًا
 نَسَمَ مَنَاسِمَةً وَنَسَامًا - قریب
 ہونا - نزدیکی ہونا - کانا بچھو کرنا -
 تَنَسَمَ - الرَّجُلُ - رانس لینا -
 تَنَسَمَتِ اَلرَّيْحُ - ہوا کا آہستہ
 چلنا - اَلْجُمُورُ - جنگاری کا بھڑکنا
 تَنَسَمَ اَلْمَكَانُ بِالطَّيْبِ - جگہ
 کا خوشبو سے مہک جانا - تَنَسَمَتِ
 مِنْهُ عَلَمًا - میں نے اس سے علم حاصل
 کیا - اَلرَّيْحُ - بوسو گھٹنا - بوسو پانا -
 اَلْوَلَدُ پِیٹ کے بچہ کا ہم پیر نام اور
 جائز ہونا -
 اَلنَّاسِمُ - فَا - قریب الموت - بیمار -
 اَلنَّسَمُ - مِم - نفس و روح - آہستہ
 چلنے والی ہوا - زندگی کا سانس ج
 اَلنَّسَامُ - اَلنَّسَمُ - ناک - مٹا
 ہوا راستہ - دودھ یا چکنائی کی بو -
 اَلنَّسَمَةُ - روح - سانس - آدمی -
 مریض رہو - زندہ ہستی - غلام - لونڈی
 ج نَسَمٌ وَنَسَمَاتٌ -
 اَلنَّسِيمُ مِم - نرم ہوا مثلاً ہوا راستہ
 ج نَسَامُ -
 اَلنَّاسِمُ - مِم - مہزور (اَنَسَامُ) آدمی لوگ
 اَلنَّسِيمُ - اونٹ کا تملوا - شتر مرغ کا
 پاؤں - نشان - کھوج - راستہ
 ج مَنَاسِمٌ -

نَسَسَ - الطَّارِءُ - پرندہ کا تیز اڑنا۔
 ادنک کو تیز دھنکنا جوا کا چلنا۔ کمزور ہونا
 النَسَّاسُ - بن مانس۔ ایک خیالی انسانی
 شکل کا جانور۔ نَسَّاسُ - نَسَّاسُ
 الْاِنْسَانِ - انسان کی مشقت و صبر
 النَسَّاسُ - سخت بھوک۔
 نَسَّاسٌ يَنْسُو نَسْوَةً - الرَّجُلُ - کام چھوڑ
 دینا۔
 اَنْسَاہُ اَنْسَاةً - اَنْسَاةً - کسی چیز کے
 چھوڑنے کا حکم دینا۔
 النَسَا - ایک رگ جو سُرین سے ٹخنے تک
 جاتی ہے۔ جِ اَنْسَاءً
 النَسْوَةُ - مَصْر - دودھ کا ایک گھونٹ۔
 النِسْوَةُ وَالنِّسْوَةُ وَالنِّسَا وَالنِّسْوَانُ
 وَالنِّسْوَانُ وَالنِّسْوَانُ عَمْرِي
 مَرَاةً كِي مَج - نسبت کے لئے نِسْوَتِي
 وَنِسْوَتِي - تصغیر - نِسْيَةٌ اور نِسْيَات
 بھی کہتے ہیں۔
 الْمَنْسُو - عرقِ نساء کی بیماری والا۔
 نَسِيٌّ يَنْسِي نَسْيًا - عرقِ نساء کی بیماری
 میں مبتلا ہونا۔ صفت (نَسِيٌّ وَنَسِيٌّ)
 مَوْنٌ نَسِيَّةٌ وَنَسِيَاءٌ -
 نَسِيٌّ يَنْسِي نَسْيًا - الرَّجُلُ عَرَقُ النِّسَا
 پر مارنا۔
 نَسِيٌّ يَنْسِي نَسْيًا وَنَسْيًا وَنَسْيًا
 وَنَسْوَةً - اَنْسَاةً - چھوڑ کر بھولنا۔
 نَسِيٌّ وَنَسِيٌّ - الرَّجُلُ - اَنْسَاةً - کسی کو
 کوئی چیز بھولنا
 نَسَاةً - اَنْسَاةً - بھولنے کا بہانہ کرنا
 النَسِيُّ وَالنِّسْيُ - بھولی ہوئی چیز۔ اَدْنَى
 چیزیں جو قافلہ چھوڑ جائے۔ اَلنِّسَاةُ
 النِّسْيَانُ وَالنِّسَاةُ - بھولنے والا
 جو اپنی قوم میں شمار نہ ہو۔
 الْمَنْسِي - مفع - بھولی ہوئی چیز عرقِ النساء
 میں مبتلا۔

الْمَنْسَا - لا مَحِي
 نَسَّ (ن) نَسَّ - الدَّابَّةُ - جانور کو آہستہ دھنکنا
 مشک وغیرہ کو بار بار کر کے ملانا۔
 نَسَّ (م) نَسَّ وَ نَسَّيْنَا - اَلْمَرْءُ فِي
 الْكُوْزِ الْجَدِيدِ - پانی کا نئے کوزے میں
 آواز کرنا۔ اَلْمَرْءُ - گوشت کا ہڈی یا
 کڑا ہی میں آواز کرنا۔ الْعَزِيْزُ - تالاب
 کا پانی خشک ہونے لگنا۔ النَّبِيْزُ
 نبیذ کا جوش مارنا۔ الرَّطْبُ - خشک
 ہونا۔
 نَسَّتِ اللَّحْمَةَ - گوشت کے ٹکڑے
 کا پانی ٹپکانا۔
 النِّش - مَصْر - ہر چیز کا نصف۔
 النِّشَاشُ - پانی جذب کرنے والا۔
 اَرْضٌ نَشَا شَةً - مَنَّاكَ زَمِيْنٌ جِسْمٌ فِيْ
 زَاكٍ -
 النِّشْيَاسُ - مَصْر - جوش کھانے والے پانی
 کی سنسنی۔ اَرْضٌ نَشْيَاشَةٌ
 شور زمین۔
 الْمَشَّةُ - چھری۔
 نَشَا (ن) وَنَشْوَةً (ن) نَشَا وَنَشْوًا
 وَنَشَاةً وَنَشَاءً وَنَشَاءَةً -
 اَنْسَاةً - پیدا ہونا۔ زندہ ہونا۔ اَلطِّفَلُ
 بچہ کا جو اتنی کو پہنچا۔ اسم النِّشْ وَ
 نَشَاةً السَّحَابَةُ - اَنْسَاةً -
 اَنْسَاةً اَنْسَاةً - پان۔ پرورش کرنا۔
 اَنْسَاةً اَللّٰهُ السَّحَابَةُ - خدا تعالیٰ کا
 بادل کو اٹھانا۔ اَنْسَاةً - پیدا کرنا۔
 اَللّٰهُ اَنْسَاةً - پیدا کرنا۔ اَللّٰهُ اَلْخَلْقُ -
 شروع کرنا۔ اَنْسَاةً اَلْخَبْرُ اَوَّالُ الْكَلَامِ
 وضع کرنا۔ ابتدا کرنا۔ زَيْدٌ - عمدہ
 شعر کہنا یا بہترین خطبہ دینا۔ فَلَا فَا
 دَارًا - تعمیر شروع کرنا اَنْسَاةً فَلَا فَا
 يَعْرِفُ فُلَاكَ مَارَئِيْ لَكَ - مِّنْ اَلْمَكَانِ
 نکلنا۔

نَشَاةً تَنْشِيَةً - پانا۔
 تَنْشَا اَسْتَنْشَاةً - اَلْاَخْبَارُ - خبروں کی
 حقیقت کا پتہ لگانا۔ اَلْعِلْمُ فِي الْفَاةِ
 حَصْدًا اَكْثَرًا - عَلَانًا قَصِيْدَةً اَوْ
 خُطْبَةً - قصیدہ یا خطبہ کی قرائت کرنا
 النِّشْ - مَصْر - نسل۔ اولاد۔ اونٹ کے
 چھوٹے بچے۔ اَوْسَاجًا بَادِلًا يَابَادِلًا
 حَصْدًا حَوْبِلًا ظَاهِرًا جِ نَشَاةً -
 النِّشْيَاسُ - بادل کا وہ حصہ جو پہلے ظاہر ہو
 النِّشَاةُ وَ النِّشْيَاسَةُ نباتات کی نازک
 کونپلیں۔
 النِّشْيَاسُ - خا - جوانی کے نزدیک پہنچا ہوا۔
 لَرَاكَ يَارُوْكَ جِ نَشْيًا وَنَشَاةً وَ
 نَشَاةً - رات کو ظاہر ہونے والا۔
 یا شروع ہونے والا جِ نَوَاشِيْ -
 النِّشْيَاسَةُ - مَوْنٌ النِّشْيَاسُ - دن یارات
 کا آغاز۔ سونے کے بعد اُٹھنا نوجوان
 لَرَاكَ جِ نَوَاشِيْ -
 الْمَنْشَا - پیدا ہونے کی جگہ۔
 الْمَنْشَا وَالْمَنْشَاةُ - بندھنا
 بلند نشان راہ۔
 نَشَبَ (س) نَشَبًا وَنَشَبًا وَنَشَبَةً
 - اَنْسَاةً - اَنْسَاةً - اَنْسَاةً - اَنْسَاةً -
 اَلْعُلْمُ فِي خَلْقِ - حلق میں بڑی چھبنا۔
 نَشَبَ مَنَشَبٌ سَوِيٌّ - وہ پیچیدہ کام
 میں پھنس گیا۔ مَا نَشَبَ اَوْ لَحْدَ
 يَنْشَبُ اَنْ فَعَلَ - اس نے لیا کرنے
 میں دیر نہ لگائی۔ مَا نَشَبَ يَنْشَبُ
 اُس نے کہنا نہیں کیا۔ (نَشَبًا)
 اَلْحَرْبُ بَيْنَ الْقَوْمِ - گھسان کی
 لڑائی ہونا۔ اَلْاَمْسُ فَلَا نَا - لازم ہونا
 فَنِيْ - خریدنا۔
 نَشَبَ وَ اَنْشَبَ فِيْ كَذَا - چٹانا۔
 چپا کرنا۔ اَنْشَبَ بَحَا لَهْمَ - اُس
 نے اس کو جال میں پھنسا یا۔



تَنْشِطُ الْمَقَاذَةِ - بیاہاں کو چستی سے عبور کرنا۔

اِنْشِطَ - الْجَبَلُ - ری کو کھولنے کے لئے کھینچا۔ اَلْجَبَلُ - ری کا کھٹنا۔ اَلْشَّيْءُ - چھینا۔ بھیل کے پھیلے اتارنا۔ اَلشَّيْءُ - چھیننا۔ مضبوط کرنا۔ اَلْأَنَاءُ - لگا آئی۔ لگا آ۔ کھینچنا یا بلند کرنا۔

اِسْتَنْشَطَ - الْجِلْدُ - کھال کا بھری دار ہونا۔

النَّشْطُ - مَع - تیزی و عجلت سے ڈنک مارنا۔

النَّاشِطُ - چست۔ پھر تیل۔ پھر نیوالا۔ جھگیل۔ طَرِيقُ النَّاشِطِ - بڑے راستے سے دائیں بائیں گھٹنے والا راستہ۔

النَّاشِطَةُ - النَّاشِطُ کا مؤنث۔ ج۔ نَاشِطَاتٍ وَكَوْاشِطٍ النَّوَاشِطِ مِنَ الْمَسَائِلِ - بڑے مسئلے سے نکلے ہوئے مسائل۔ واحد۔ (نَاشِطٌ)۔

النَّشِيطُ - خُوشِ حِیْتٍ - ہشاش۔ حِیْتِ اہل دیال یا حِیْتِ جانوروں والا۔ ج۔ نِشَاطٌ - و۔ نِشَاطٌ۔

النَّشَوُطُ - ایک قسم کی پھل پھوٹنا۔ گہرا کنڈاں۔ سَوَّءُ اَنْشَاطٍ وَاِنْشَاطٍ - کم گہرائی کا کنڈاں کہ ایک ہی بار کھینچنے میں اس سے ڈول باہر نکل آئے۔

النَّشِيطَةُ - مَوْتِ النَّشِيطِ - راستہ ہی میں ہاتھ لگ جانے والا مالی غنیمت۔

اَلْأَنْشَوُطَةُ - آسانی سے کھلنے والی گرہ ج۔ اَنَاشِيطٌ۔

اَلْمِنْشِطُ - بہت حِیْت۔ اَلْمِنْشِطُ - خُوشِ دَل۔

نَشَطَ (ن) نَشَوُطًا - اَلنَّبَاتُ - نباتات کا نمودار ہونا۔

نَشَعَ (ف) نَشَعًا - الرَّجُلُ - سسلی لینا۔ اَلشَّيْءُ - چر کہ زور سے نکالنا۔

اَلطَّيِّبُ - خُوشْبُوہ - سونگھنا۔ فَنَلْنَا الدَّوَاءَ - مزہ میں دوا

ڈالنا۔ ہ۔ اَلْكَامُ - کلام سوجھانا۔ تلقین کرنا۔

نَشَعَ (ف) نَشَوُوعًا - قَرِيبَ الرُّجُلِ - ہر کر معنیاب ہونا۔

نَشَعَ كَشَعًا يَكُنَا - مَشَاقِ ہونا۔ مَنَافِعُہ ہونا۔ صفت: مَنَشَوُوعٌ ہ۔

النَّشَعَةُ - الدَّوَاءُ - دوا منہ میں ڈالنا۔ کلام سوجھانا۔ تلقین کرنا۔

اِنْتَشَعَ - ناک میں دوا ڈالنا۔ اَلشَّيْءُ - چر کہ سختی سے کھینچنا۔

النَّشَوُوعُ - سَوَّار - ناک یا منہ میں ڈالنے کی دوا۔ سانس کو پھولانے والی ہر ایک چیز۔

اَلنَّاشِعُ - فَا - اُبھرا ہوا۔ اَلنَّشَعُ - خراب مزے کا پانی۔

اَلنَّشَاعَةُ - اَلْعَدُوُّ - نکال کر پھینکی ہوئی چیز۔

اَلْمِنْشَعُ وَالْمِنْشَعَةُ - وہ طرف جس میں ناک یا منہ میں ڈالنے کی دوا رکھی جائے۔

نَشَعَ (ف) نَشَعًا - اَلْمَاءُ - پانی کا بہنا۔ ہ۔ بِالرَّمْحِ - نیزہ مارنا۔

اَلْكَامُ - کلام سوجھانا۔ تلقین کرنا۔ اَلْهَبِيُّ - ہچم کے منہ میں دوا

پڑکانا۔ اَلْمَاءُ - اِدُك سے پانی پینا۔ اَلرَّجُلُ - سسلی لینا۔

سہاں تک کہ بے ہوشی کے قریب ہونا۔ نَشَعٌ اَلْهَبِيُّ - ہچم کے منہ میں دوا کا

ڈالنا۔ اَلشَّيْءُ - مَشَاقِ ہونا۔ صفت مَنَشَوُوعٌ ہ۔

اَنْشَعَ - عَذُوہ علیہ ہونا۔ ہ۔ اَلْكَامُ - تلقین کرنا۔

اَلنَّاشِعُ - فَا - نَشَعٌ مَوْتِ نَاشِعَةٌ - کَوَاشِعٌ وَنَاشِعَاتٌ -

اَلنَّوْاشِعُ - وادی میں پانی کے بہنے کے راستے۔

اَلنَّشَعَةُ - لمبی سانسوں میں سے ایک سانس۔ موت کے وقت سسکی ج۔ نَشَعَاتٌ

اَلنَّشَوُوعُ - سَوَّار - ناک میں ڈالنے کی دوا۔ سانس کو پھولانے والی ہر ایک چیز۔

اَلْمِنْشَعُ وَالْمِنْشَعَةُ - مَنَافِعُہ یا ناک میں دوا پھیلانے کا برتن۔

نَشَفَ (س) وَنَشَفَ (د) نَشَفًا - اَلرَّوْبُ اَلْعَوِيُّ اَوِ اَلْعَوِيُّ اَلْمَاءُ -

کپڑے کا پسینہ کو یا حوض کے پانی کو جذب کر لینا۔ اَلْمَاءُ فِي الْاَرْضِ -


پانی کا زمیں میں جذب ہونا۔ نَشَفَتِ اَلْبُيُوتُ - کوئیں کا پانی ختم ہونا۔

نَشَفَ (ر) نَشَفًا - اَلْمَاءُ - پانی کو پھیلنے وغیرہ سے پونچھنا۔ خشک کرنا۔

نَشَفَ مَعْنَى نَشَفَ - نَشَفَتِ اَلنَّاقَةُ - بچہ پیدا ہونے کے قریب زمانہ میں اونٹنی کے تھنوں کا کبھی بھرا ہوا ہوتا اور کبھی خشک ہوتا۔

صفت (مَنْشَفٌ) - اَنْشَقَهُ - حِجَاكٌ دَالِدٌ دُودُہ پلانا۔

نَشَفَ اَلثَّوْبُ اَلْعَرَقَ - کپڑے کا پسینے کو چھڑس لینا۔ اَلرَّجُلُ -



کپڑے وغیرہ کے ٹکڑے سے بدن کو پونچھنا۔
 اَلنَّشَقُ جھاگ والا دودھ پینا۔ اَلْمُسَخَّرُ نَحْوَهُ میں وغیرہ پونچھنا۔
 النَّشَقُ پانی کا جذب ہونا۔
 النِّشْفَةُ وَالنَّشْفَةُ مٹھوڑی چیز جو برتن میں باقی رہ جائے۔ اَلنَّشْفَةُ ہانڈی سے گرم گرم نکال ہوئی چیز جس کو کھایا جائے۔
 النِّشْفَةُ وَالنَّشْفَةُ جھاگ۔ جہاں۔ جہ۔
 نَشَفَ وَنِشَفَ وَنِشَفَ وَنِشَفَ وَنِشَفَ وَنِشَفَ وقت کے جھاگ۔ اَلنَّشْفَةُ جذب شدہ پانی۔ گرم گرم ہانڈی سے نکالی ہوئی چیز۔
 النِّشْفَةُ وَالنَّشْفَةُ پانی پونچھنے کا پڑا جھارن۔
 اَلْمِنْشَقَةُ تولى۔ جہ۔ مَنَاشِقُ۔
 نَشَقَ رَسًا، نَشَقًا وَنَشَقًا۔ اَلرَّيْحُ سونگھنا۔ فی الْحَبَالَةِ۔ پھندے میں پھینسا۔
 اَلنَّشَقَةُ اَلْمِسْكُ وَنَحْوُهُ مُشْكٌ وَغَيْرُهُ سونگھنا۔ اَلْقَبِي فِي الْحَبَالَةِ۔ ہرن کو جال میں پھینسانا۔ اَلنَّشَوُ قُ نوار سونگھنا۔
 تَنَشَّقُ وَانْتَشَقُ وَاسْتَنَشَقُ۔ اَلْمَاءُ فِي اَنْفِهِ ناک میں پانی ڈالنا۔
 اَلنَّشَقَةُ بکری وغیرہ کی گردن کا پڑ۔ جہ۔ نَشَقُ۔
 اَلنَّشَقُ کسی کام میں پھنس کر چھٹکارا نہ پانے والا آدمی۔
 اَلنَّشَقُ وَالنَّشَقُ سونگھنا۔
 اَلنَّشَوُ نوار۔ سونگھنے کی دوا۔
 اَلْمَنْشَقُ ناک۔ جہ۔ مَنَاشِقُ۔

اَلْمَنْشَقَةُ نوار کھنے کی ڈبیر وغیرہ۔
 نَشَلَ رَنًا، نَشَوًا۔ اَلرَّجُلُ آدمی کا دُلا ہونا۔
 نَشَلَ رَنًا، نَشَلًا۔ اَلشَّيْءُ چیز کو جدا چک لینا۔ پھین لینا۔ اَلْحَاثَةُ اَنگوٹھی اتارنا۔ نَشَلَتِ اَلْحَبِيَّةُ اَلرَّجُلُ۔ ساپ کا آدمی کو ٹوس لینا۔
 اَللَّحْمُ گوشت کو بغیر مسالہ کے پکانا۔ گوشت کو ہانڈی میں سے بغیر پیچھے کے ہاتھ ہی سے نکالنا۔
 اَنْشَلَ وَانْتَشَلَ۔ اَللَّحْمُ مِنَ الْقَدْرِ گوشت کو ہانڈی سے نکالنا۔ مَا عَلَي الْعِظْمِ بِغَيْرِهِ منہ سے ہڈی پر سے گوشت چھڑا کر کھانا۔
 اَلنَّشَلُ بغیر مسالہ کے پکایا ہوا گوشت۔
 اَلنَّشَالُ ہانڈی سے گوشت نکالنے کا عادی۔
 اَلنَّشِيلُ کنویں سے تازہ نکالا ہوا پانی۔
 مَقْن سے نکالا ہوا دودھ۔ پتلی تلوار۔
 بَغِيرُ حِمِیْ کے ہاتھ سے نکالا ہوا گوشت۔
 بغیر مسالہ کے پکایا ہوا گوشت۔
 اَلْمَنْشَلَةُ انگلی کا وہ حصہ جو انگشتی کے نیچے ہو۔
 اَلْمِنْشَلُ وَالْمِنْشَالُ گوشت نکالنے کی کٹڑی دار سیخ۔ جہ۔ مَنَاشِلُ۔
 نَشَمَ رَسًا، نَشَمًا۔ اَلثَّوْمُ بیل کا سیاہ سفید داغوں والا ہونا۔ صفت نَشَمُ۔
 نَشَمَ۔ اَللَّحْمُ گوشت کا بگڑ کر بدبودار ہونا۔ اَلْأَرْضُ زمین سے پانی کا رَسنا۔ فِي فَلَانٍ بدگوئی کرنا۔ طعن کرنا۔ فِي الشَّرِّ شرارت میں پڑنا۔ اَللّٰهُ فِي كَرَفَلَانٍ ذکر بلند کرنا۔ شہرت دینا۔ وَتَلَشَّمَ فِي الْأُمُورِ کام شروع کرنا۔ تَلَشَّمَ

مِنْهُ عِلْمًا علم حاصل کرنا۔
 النَّشَمُ مہ۔ وہ دخت جس سے کمانیں بنائی جاتی ہیں۔
 اَلْمَنْشَمُ وَالْمَنْشَمُ ایک قسم کی خوشبو۔
 اَلْمَنْشَمُ ایک عطر فروش عورت جس کے عطر کو جب لگاتے تھے تو لڑائی تیز ہو جاتی تھی۔
 نَشَنَشَ نَشَنَشَةً۔ اَلجِلْدُ کھال۔ اُتَارنا۔ اَلشَّيْءُ زور سے بٹانا۔
 اَلغُرُ بیل کو چلانا۔ اَلنَّوْبُ۔
 کپڑے اتارنا۔ اَلْوَعَاءُ برتن کو بھاڑنا۔
 اَلسَّلْبُ لینا۔ نَشَنَشَتِ اَلْهَدْيُ ہانڈی کا جوش کھاتے وقت آواز کرنا۔
 نَشَنَشَ الرَّجُلُ کام میں جلدی کرنا۔ اَللَّحْمُ گوشت جلدی کھانا۔
 تَنَشَنَشَ۔ اَلشَّجَرُ درخت کی پھال اتارنا۔
 اَلنَّشَنَشَةُ مہ۔ کاغذ یا نئے کپڑے کی کھڑکھڑاہٹ۔
 اَلنَّشَنَاشُ وَالنَّشَنَشُ وَالنَّشَنَشِيُّ حِجَّتِ۔ پھرتیلا۔ اَرْضُ نَشَنَاشَةٍ کھاری۔ بجزین۔
 نَشَى يَنْشَى نَشْوَةً وَنِشْوَةً وَنَشْوَةً وَتَلَشَّى وَانْتَلَشَّى وَاسْتَنَشَى۔
 اَلرَّيْحُ سونگھنا۔ نَشَى بِالْشَّيْءِ بار بار کرنا۔
 نَشَى يَنْشَى نَشْوًا وَنَشْوَةً وَنِشْوَةً وَنِشْوَةً وَتَلَشَّى وَتَلَشَّى وَانْتَلَشَّى وَانْتَلَشَّى۔
 نَشَى وَانْتَلَشَّى وَانْتَلَشَّى وَانْتَلَشَّى۔
 اَلنَّشَى وَاسْتَنَشَى۔ اَلخَبَرُ خبر دینا کرنا۔
 اَلنَّشَا عہدہ خوشبو۔ بُو۔ جہ۔ اَنْشَاء۔
 اَلنَّشَاءُ۔ اَلنَّشَاءُ۔ نَشَاسَتہ۔
 اَلنَّشَاةُ سونگھ دخت۔ جہ۔ نَشَا۔
 اَلنَّشْوَةُ اسم مرقہ۔ خراب کی بدستی یا ابتداء مستی۔ بُو۔



الطَّاهِي. پکانے والے کا ہانڈی
چڑھانا۔

تَنَصَّبَ کھڑا ہونا۔ اَلْخَبَّارُ وَنَحْوُهُ۔
غبار وغیرہ کا بلند ہونا۔

تَنَّا صَبُّوا۔ اَلشَّيْءُ۔ چیز کو آپس میں
بانٹ لینا۔

النَّصَبُ۔ مِم۔ کھڑا کیا ہوا جھنڈا۔ بلا۔ مرض
نتیجہ۔ بخوبی کے نزدیک ایک حرکت
اعرابی۔ نَصَبُ الْعَرَبِ۔ حدی سے
مشابہ ایک راگ۔

النَّصَبُ حصہ۔
النَّصَبُ وَالنَّصَبُ کھڑی کی ہوئی چیز۔
هَذَا النَّصَبُ عَيْنِي۔ وہ میری آنکھوں
کے سامنے ہے۔ بت۔ ج۔ اَنْصَابُ
بیماری۔ مصیبت۔ النُّصَبُ۔ حصہ
بروہ چیز جو علامت مقرر کی جائے۔
ج۔ اَنْصَابُ۔

الْاَنْصَابُ۔ پتھر جو جاہلیت میں کعبہ کے
ارد گرد کھڑے کئے گئے تھے اور ان
پر جانور ذبح کیے جاتے تھے۔

النَّصَبُ۔ مِم۔ کھڑی کی ہوئی علامت۔
ج۔ اَنْصَابُ۔

النَّصَبُ۔ بیمار۔ بتلائے درد۔

النَّصَبُ۔ نصب کا اسم مرہ۔ نصب کی
علامت۔ گاڑنے کے لیے پودا۔

النَّصَبُ۔ گاڑنے کی نوعیت۔
النَّصَبُ۔ راستہ بتانے والے ستون۔
ج۔ نَصَبُ۔

النَّصَابُ۔ اصل۔ مرجع۔ سورج ڈوبنے
کی جگہ۔ ہر چیز کا اول۔ چھری کا دستہ۔
مال کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی
ہے۔ ج۔ نَصَبُ۔

النَّصِيبُ۔ حصہ۔ حوض۔ بھنڈا۔ ج۔
النَّصِيبُ وَالنَّصِيبُ وَالنَّصِيبُ۔

النَّصِيبُ۔ ج۔ اَنْصَابُ۔ حوض کے

النَّصِيبُ۔ مِم۔ نَصِيبُ الْقَوْمِ۔ لوگوں
کی تعداد۔

الْمَنْصَبُ۔ چمپرکھٹ۔ الْمَنْصَبُ۔ دہن
کے بٹھانے کی کرسی۔ پیند لگے ہوئے
کپڑے۔ پاؤں سے روندے ہوئے
فرش۔ ج۔ مَنَاصُ۔ وَجِعَ عَلَى
الْمَنْصَبِ۔ اس کی بے عزتی کی گئی۔

النَّصَاصُ۔ ناک ہلانے والا۔
الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ۔ معین۔ مقرر۔

نَصَاةٌ دَفْ، نَصَاةٌ۔ پیشانی کے بال
پکڑنا۔ الرَّجُلُ۔ ڈانٹنا۔ دفع کرنا۔

نَصَبَهُ (رَضَ) نَصَبًا۔ الْمَرْضُ او
الْهَمُّ۔ تھکانا۔ درد مند کرنا۔ نَصَبَ
الشَّيْءُ۔ بلند کرنا۔ کھڑا کرنا۔ گاڑنا۔

الشَّجَرَةَ۔ درخت کو لگانا۔
الْحَرْبُ۔ لڑائی کی بنیاد رکھنا۔

لَهُ الشَّيْءُ۔ برائی ظاہر کرنا۔ لَهُ
رَأْيًا۔ رائے دینا۔ اَفْلَاحُ۔ کسی
سے دشمنی رکھنا۔ اَلْكَلِمَةُ۔ نصب

لگانا یا منصوب پڑھنا۔ الْاَمِيرُ
فُلَانًا۔ کسی کو عہدہ دینا۔

نَصَبَ دَس (نَصَبًا)۔ تھکانا۔ فِي الْاَمِيرِ
کوشش کرنا۔

نَصَبَ۔ الشَّيْءُ۔ رکھنا۔ بلند کرنا۔
الْاَمِيرُ فُلَانًا۔ امیر کا کسی کو عہدہ

دینا۔
اَنْصَبَهُ۔ تھکانا۔ حصہ مقرر کرنا۔ هُ
الْمَرْضُ۔ درد مند کرنا۔ اَنْصَبَ

الْحَدِيثُ۔ حدیث کی سند بیان کرنا۔
الْيَسْكِينُ۔ چھری میں دستہ لگانا۔

نَاصِبُهُ مَنَاصِبُهُ۔ دشمنی کرنا۔ مقابلہ کرنا۔
هُ الْحَرْبُ او الْعَدَاوَةُ۔ لڑائی

کا اعلان کرنا۔ دشمنی ظاہر کرنا۔
اَنْصَبَ۔ کھڑا ہونا۔ بلند ہونا۔

الْحَرْفُ۔ حرف پرز ہونا۔

النَّشْوَةُ۔ پہلی خبر۔
النَّشِيَةُ۔ بو۔ ج۔ نَشَايَا۔

النَّشْوَانُ۔ بدست۔ مَوْتُ النَّشْوَةِ۔ ج
نَشَاوَتِی۔

النَّشْيَانُ۔ سب سے پہلے خبر کو دریافت
کرنے والا۔

نَصَّ دَن، نَصًّا۔ الشَّيْءُ۔ بلند کرنا۔ ظاہر
کرنا۔ حرکت دینا۔ اَلْحَدِيثُ۔

حدیث کی سند بیان کرنا۔ الرَّجُلُ
پوری طرح دریافت کرنا۔ اَلْعَاقِلَةُ۔

اونٹنی کو تیز ہانکنا۔ اَلْمَتَاعُ۔
سامان کو ایک دوسرے پر چھنا۔

الْعَرُوسُ۔ دہن کو چمپرکھٹ پر
بٹھانا۔

نَصَّ رَضَ، نَصِيبًا۔ اَلشَّوَاءُ عَلَى
النَّارِ۔ گوشت کے بھننے وقت چرچرنا

نَصَّتِ الْقَدْرُ۔ ہانڈی کا جوش
مارنا۔

نَصَصَ وَنَاصَ مَنَاصَةً۔ غَرِيبًا۔
قرضدار سے جھگڑنا اور اس کو بہت

تنگ کرنا۔ نَصَصَ الْمَتَاعُ۔
سامان کو تہ بہ تہ رکھنا۔

اَنْتَصَ۔ الشَّيْءُ۔ بلند ہونا۔ سیدھا کھڑا
ہونا۔ اَنْتَصَ الرَّمْلُ۔ نیزہ کا

سیدھا کھڑا ہونا۔ سکرنا۔
اَنْتَصَتِ الْعُرُوسُ۔ دہن کا عجلہ

عروسی میں بیٹھنا۔
تَنَاصَ۔ الْقَوْمُ۔ قوم کا بھیڑ کرنا۔

النَّصُّ۔ مِم۔ مَصْرَحُ کلام۔ ج۔ نَصُوصُ۔
وَالنَّصُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ انجام۔ انتہا

النَّصُّ مِنَ الْكَلَامِ۔ ایسا کلام جس میں
تاویل کی گنجائش نہ ہو۔

النَّصَّةُ۔ اسم مرہ۔ چٹریا۔
النَّصَّةُ۔ پیشانی پر شکے ہوئے بال۔ ج۔

نَصَصَ وَنِصَاصُ۔



گرداگرد پتھر۔

النَّاصِبُ۔ فاء تیز چلنے والا۔ تباہ کن رنج۔

تکلیف دہ زندگی۔ جہ۔ نَوَاصِبُ۔

النَّصَابُ۔ ہر کام میں خود گھسنے والا۔

الْأَنَاصِيبُ وَالنَّاصِيبُ۔ راستہ پر کھڑے

کیے ہوئے نشانیاں۔

الْأَنْصِبُ۔ کھڑے سیگوں والا۔ مونث

نَصْبَاءُ۔ نَاقَةُ نَصْبَاءُ۔ ابھرے

ہوئے سیدہ والی اونٹنی۔ جہ۔ نَصْبُ۔

الْمَنْصِبُ۔ اصل۔ مرجع۔ حسب و شرافت

درجہ۔ عمدہ۔ رتبہ۔ جہ۔ مَنَاصِبُ۔

الْمَنْصِبُ۔ تین پاؤں والا لہجہ کا چولہا۔

الْمَنْصِبَةُ۔ تھکان، رنج۔ مصیبت۔

الْمَنْصِبُ۔ مفع۔ اَسْنَانُ مَنَصِبَةٍ

خوبصورت ترتیب و اردانت

الْمَنْصُوبُ۔ مفع۔ زبرد الاکلہ۔

الْمَنْصُوبَةُ۔ مونث الْمَنْصُوبُ۔ حیلہ۔

نَصَتْ رَضًا، نَصْنًا دَانَصَتْ وَانْتَصَتْ

۔ لہ۔ چپ رہ کر بات سننا۔ چپ چاپ

سننا۔ اَنْصَتَهُ۔ چپ کرنا۔

تَنْصَتُ۔ چپ اور خاموش رہنے کی

کوشش کرنا۔

اِسْتَنْصَتُ۔ سننے کے لیے چپ چاپ

کھڑا ہونا۔ اَنْ۔ خاموش رہنے کے

لیے کہنا۔

النُّصَّةُ۔ خاموشی۔

نَصَرَ دَفًا، نَصَحًا وَنَصَحًا وَنَصَاحَةً

وَنَصَاحَةً وَنَصَاحِيَةً۔ فَلَانًا

يُفْلَكُونُ۔ نصیحت کرنا۔ خالص اور سچی

دوستی کرنا۔ صفت نَاصِحٌ۔ جہ

نَصَاحٌ وَنَصِيحٌ۔

نَصَحَ دَفًا، نَصَحًا وَنَصُوحًا۔ الشَّيْءُ

خالص ہونا۔ صاف ہونا۔ تَوْبَتُهُ۔ سچی

اور پختہ توبہ کرنا۔ الْعَمَلُ۔ خالص

طریقہ سے کرنا۔ الْحَصْلُ۔ شہد صاف

کرنا۔ الثَّوْبُ۔ کپڑا سینا۔ اَلْعَيْثُ

الْبَلَدُ۔ بارش کا زمین کو سیراب کر کے

سبزہ سے ڈھک دینا۔

نَا صَحَّةٌ مِّنَّا صَحَّةٌ۔ ایک دوسرے کو

نصیحت کرنا۔ نَفْسُهُ بِالتَّوْبَةِ۔ خالص

توبہ کرنا۔

اَنْصَحَ۔ الْوَارِثُ الْاِثْبَلُ۔ چرواہے کا

مویٹی کو سیراب کرنا۔

تَنْصَحَ۔ بہت نصیحتیں کرنا۔ نصیحت کرنے

والوں کے مشابہ بننا۔ الثَّوْبُ۔

کپڑا سینا۔

اَنْتَصَحَ۔ نصیحت قبول کرنا۔ فَلَانًا

خیر خواہ جاننا۔

اِسْتَنْصَحَهُ۔ خیر خواہ سمجھنا۔

النِّصَاحُ۔ سینے کا دھاگا۔ لای۔ جہ۔

نُصْرٌ وَنِصَاحَةٌ۔

النِّصَاحَاتُ۔ چڑھے جو آپس میں سے ہوئے

ہوں۔ پھندے۔ واحد۔ نِصَاحَةٌ۔

النَّاصِحُ۔ خالص شہد وغیرہ۔ نَاصِحٌ

الْجَبِيْبُ۔ پاک دل مخلص۔

النَّاصِحُ وَالنَّصَاحُ وَالنَّاصِحِيُّ۔ درزی۔

النِّصِيحُ۔ مخلص۔ خیر خواہ۔ جہ۔ نَصِيحًا۔

النِّصُوحُ۔ نصیحت کرنے والا مرد یا عورت۔

تَوْبَةُ نَصُوحٍ۔ سچی توبہ۔

النِّصِيحَةُ۔ اخلاص۔ خیر خواہی۔ جہ۔

نَصَائِحُ۔

الْمِنْصَحُ وَالْمِنْصَحَةُ۔ سوئی۔

الْمُتَنْصَحُ۔ مفع۔ سسلا ہوا یا پیوند لگا

ہوا کپڑا۔

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

وَنَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

وَنَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

وَنَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

وَنَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

وَنَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا، نَصَرَ دَفًا

النَّصِيْرَةُ - مؤنث النصير عطيہ۔ ج۔
نصائر۔

النَّصِيْرِيَّة - غالی شیعوں کا ایک فرقہ جو
شام کے شمال میں سکونت پذیر ہیں اور
اپنے عقیدے کو چھپاتے ہیں۔ واحد
نصیری۔

النَّصُور - ناسور۔ ج۔ کواصائر۔

النَّصَار - بہت مدد کرنے والا۔

النَّصُور - منعم۔ ارض منصورة۔ بارش
سے سیراب زمین۔

نَصَع رن، نَصُوعًا وَنَصَاعَةً - الشیءُ

خالص ہونا۔ نَصُوعًا، الْأَهْلُ -

معاملہ کا ظاہر ہونا۔ واضح ہونا۔

الْكُونُ - بہت سفید ہونا۔ الشَّارِبُ

پیاسے کا پیاس بھانا۔ الْأُمُّ بِه -

بچ جتنا۔ وَأَنْصَع بِالْحَقِّ - حق کا

اقرار کر کے اس کو ادا کرنا۔ أَنْصَع

لِلشَّيْءِ - برائی کے درپے ہونا۔

النَّصْعُ وَالنَّصْعُ وَالنَّصْعُ - بہت

سفید چمڑا یا کپڑا۔

النَّصْعُ - چمڑے کا فرش جس پر مجرم قتل

کیا جاتا تھا۔

النَّاصِعُ وَالنَّاصِعُ - خالص۔ صاف۔ حَقٌّ

نَاصِعٌ - ظاہر حق۔ حَسْبُ نَاصِعٌ -

خالص حسب۔

النَّاصِعُ - قضائے حاجت کی جگہیں۔ واحد

مَنَصَعٌ۔

نَصَقَهُ رن من، نَصَقًا - دن وغیرہ کا آدھے

تک پہنچنا۔ نَصَقْتُ عُمُورِي - میں اپنی

آدھی عمر تک پہنچ گیا ہوں۔ وَنَصَقْتُ

الْكِتَابَ - میں آدھی کتاب تک پہنچا۔

نَصَقَ الْبَقْلُ دَغِيْرُهُ - دن وغیرہ کا

نصف تک پہنچنا۔ رن نَصَقًا وَنَصَقًا

وَنَصَقًا وَنَصَقًا - خدمت کرنا۔

نَصَقَ رن، نَصَقًا وَنَصَقًا وَنَصَقًا

- الشیءُ۔ آدھی چیز لے لینا۔ الْقَوْمُ

قوم سے آدھا لے لینا۔ الشیءُ بَيْنَ

الرَّجُلَيْنِ - ایک چیز کو دو آدمیوں میں

آدھا آدھا بانٹ دینا۔ الْقَدْحُ -

پیالہ کی آدھی چیز پی جانا۔

نَصَقَ رن، نَصُوعًا - النخل - درخت

خرما کا آدھی پختہ کھجوروں والا ہونا۔

نَصَقَ - الشیءُ۔ آدھا آدھا کرنا۔ نصف

لینا۔ التَّهَارُ - دن کا آدھا ہونا۔

رَأْسُ فُلَانٍ - سر کا آدھا سفید ہونا

اور آدھا سیاہ رہنا۔ السَّجْلُ -

آدمی کا ادھیڑ عمر تک پہنچنا۔ الْجَارِيَّةُ

لڑکی کو ادھیڑ بھئی اوڑھانا۔ النخل -

درخت خرما میں بعض کھجوروں کا ٹرخ ہونا

اور بعض کا سبز رہنا۔

النَّصَقُ - النَّمِي - نصف تک پہنچنا۔

الشیءُ۔ آدھا لینا۔ الرَّجُلُ - منصف

ہونا۔ الْمُسَافِرُ - مسافر کا نصف

النہار میں چلنا۔ النخطين - دو

خصموں کے درمیان انصاف سے

فیصلہ کرنا۔ مِنْ فُلَانٍ - کسی سے

اپنا پورا حق لے لینا۔ فُلَانًا - خدمت

کرنا۔ الْمَاءُ الْإِنْعَاءُ - پانی کا آدھے

برتن تک پہنچنا۔

نَاصِقَهُ مُنَا صَقَهُ - آدھا آدھا بانٹ

لینا۔ نَاصِقَهُ الْمَالُ - آدھا مال

دینا۔

تَنَصَّقَ - الْأَمِيرُ - امیر سے انصاف

کی درخواست کرنا۔ الْغِيْبُ فُلَانًا -

تمام بال سفید ہونا۔ الرَّجُلُ - خدمت

کرنا۔ فُلَانًا فُلَانًا - خدمت لینا۔

بھلائی طلب کرنا۔ مطیع ہونا۔ الشیءُ۔

آدھا لینا۔

لَا نَتَصَّقَ - التَّهَارُ وَغَيْرُهُ - دن وغیرہ

کا نصف تک پہنچنا۔ سَهْمُهُ فِي

الصَّيْدِ - تیر کا شکار کے بدن میں

آدھے تک گھس جانا۔ الشیءُ۔ آدھی

لینا۔

تَنَصَّقَ وَانْتَصَفَ - مِنْ فُلَانٍ -

انصاف چاہنا۔ حتی لینا۔ انتقام لینا۔

تَنَاصَفَ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے سے

انصاف کرنا۔

رَسَتْ نَصَفَ - انصاف چاہنا۔ مِنْ

فُلَانٍ - اپنا حق کسی سے پورا لے لینا۔

النَّصَفُ - تثلیث النون - چیز کا آدھا حصہ

ج۔ اَنْصَافٌ -

النَّصَفُ - درمیان عمر والا۔ رَجُلٌ نَصَفٌ

ج۔ نَصُفُونَ وَأَنْصَافٌ - اِمْرَأَةٌ

نَصَفٌ - ج۔ نَصَفٌ وَنَصَفٌ -

وَأَنْصَافٌ - رن - والنصفَةُ، عدلٌ

انصاف۔

النَّصَفُ - انصاف - ج۔ اَنْصَافٌ -

النَّصِيفُ - آدھا۔ سر کو چھپانے والی ہر چیز

مثلاً اڑھنی عامر وغیرہ۔ مِنْ الْبَرْدِ -

دورنگی چادر۔

النَّاصِفُ نَا، خادِم - ج۔ نَصَفٌ وَ

نَصَفَةٌ وَنَصَافٌ -

النَّاصِقَةُ - مؤنث النَّاصِفُ - نَاصِقَةٌ

الماء - پانی کی نالی۔ ج۔ نَوَاصِفٌ -

النَّصَقَان - مِنْ الْأَيْنِيَّةِ وَنَحْوَهَا -

وہ برتن وغیرہ جو آدھے حصے تک

پھرا ہوں۔

الْأَنْصَفُ - بہت انصاف کرنے والا۔

الْمُنَصَّفُ وَالْمُنَصِفُ - مِنْ الْعَقْلِيَّةِ -

سرک کا درمیان۔

الْمُنَصَّفُ وَالْمُنَصِفُ - خادِم - مؤنث

منصفۃ - ج۔ مَنَاصِفٌ -

الْمُنَصَّفُ - مفع - وہ رس وغیرہ جو پیک کر

نصف ہو گیا ہو۔



مُنْتَصِفٌ - الشَّيْءُ وَمُنْتَصِدًا - جِيزًا
درمیان۔

الْمُنْتَاصِفُ - مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ - سَوَّلَ بَيْنَ
والا - برابر برابر اجزا والا۔

نَصَلَ رَنًا، نَصْلًا - السَّهْمُ - نِيرَبِي
پیکان لگانا - السَّهْمُ - پیکان لگانا۔

نَصَلَ رَنًا، نَصْلًا وَنُصْلًا - مِنْ كَذَا -
نکلنا - نَصَلَ - اللَّحِيَّةُ - داڑھی

پر سے خضاب کا رنگ اتر جانا۔

الْمُسْعَةُ أَوِ الدَّحْمَةُ - لُحْمٌ كَا
اثر جاتا رہنا - مِنْ بَيْنِ الْجِبَالِ -

ظاہر ہونا - النَّاقَةُ - اُونٹنی کا اونٹوں

سے آگے نکل جانا۔

نَصَلَ وَأَنْصَلَ - السَّهْمُ - تِيرَبِي
پیکان لگانا - أَنْصَلَ السَّهْمُ

پیکان نکالنا - أَنْصَلَ الشَّيْءُ مِنْ
الشَّيْءِ - نَكَالًا - تَنْصَلُ الشَّيْءُ

نکالنا - پسند کرنا - الرَّجُلُ - کسی کے

پاس سے سب کچھ لے لینا - مِنْ
كَذَا - نَكَلًا - اللَّحِيَّةُ - داڑھی

سے خضاب کا رنگ اترنا - كَمَدُ
فُلَانٍ - رَجْعٌ وَغَمٌ دُورِ هُونًا -

اِنْتَصَلَ - السَّهْمُ - پیکان نکالنا۔

تَنَاصَلَ - نَكَلًا ظَاهِرِ هُونًا -

اِسْتَنْصَلَهُ - نَكَالًا - گرنی کا جھاڑی کے

شگوفے گراتا - ہوا کا خشک پودے

اکھیڑنا۔

النَّصْلُ - تِيرَکَا پیکان - نِيرَہ یا تلوار یا چھری

کا پھل - بہت دفعہ تلوار کو بھی نصل

کہتے ہیں - ج - نَصَالٌ وَأَنْصُلٌ وَ

نُصُولٌ - نَصْلُ الْوَامِسِ - سر کی چوٹی۔

النُّصْلَانِ - پیکان اور بھالا۔

النَّصْلَةُ - ایک پیکان۔

النَّصِيلُ - کلسا ۱۔ سر کا بالائی حصہ - تالو۔

سر اور گردن کا جوڑ - صاف کیا ہوا

گیہوں - وادی کی شاخ - نَصِيلٌ

الْحَجَرِ - پتھر کی سطح - ج - نَصْلٌ -

النَّصِيلُ وَالْمُنْصَلُ وَالْمُنْصَالُ -

لمبا کوٹنے کا پتھر۔

الْمُنْصَلُ وَالْمُنْصَلُ - تلوار - ج

مَنَا حِلٌّ -

النَّصْحَةُ - وہ تصویر جس کی تعظیم کی جائے -

نُصْنَصُ - الْبَعِيْزُ - اونٹ کا دونوں

زانوں زمین پر ٹکا کر اٹھنے کے لیے

ہلنا - الشَّيْءُ - ہلانا - فِي مَثْبِيْهِ -

چلنے میں جھومنا۔

نَصَا يَنْصُو نَصْوًا وَأَنْصَى - الرَّجُلُ -

پیشانی سے پکڑنا - نَصَتِ الْمَا شَيْطَانُ

الْمَرْأَةُ - پیشانی کے بالوں میں کنگھی

کرنا - نَصَا فُلَانٌ النَّوْبَ - کپڑا

دور کرنا - اِنَارَنَا -

نَاصَى نَصَاءً وَمَنَا صَاةً - ایک دوسرے

کو پیشانی سے پکڑنا - ایک دوسرے

سے متصل ہونا۔

تَنَصَّى - الرَّجُلُ الْقَوْمَ - قوم کی بہترین

عورت سے شادی کرنا۔

تَنَاصَى - الْقَوْمَ - ایک دوسرے کی

پیشانی کے بالوں کو پکڑنا - الْأَغْصَانُ

وَنَحْوُهُ - ہولے ٹہنیوں کا ایک

دوسرے میں گھسنا۔

النَّصُومُ - پیٹ کا مروڑ یا درد -

النَّاصِيَةُ - پیشانی یا پیشانی کے بال

جب دراز ہوں - ج - نَوَيْسٌ وَ

نَاصِيَاتٌ - نَوَاصِي النَّاسِ - قوم

کے بڑے لوگ۔

الْمُنْتَصَى - دو وادیوں کے اتصال کی

جگہ - دو وادیوں کے اوپر کے حصہ

کے ملاپ کی جگہ۔

أَنْصَى لِنَصَاءٍ - جگہ کا بہت جھاڑی

والی ہونا۔

لَا تُتَقَى اِنْتِصَاءً - الشَّعْرُ - بالوں کا دراز

ہونا - الْجَبَلُ أَوِ الْأَرْضُ - پہاڑ یا

زمین کا بلند ہونا - الشَّيْءُ - پسند کرنا۔

النَّصِي - ایک قسم کا عمدہ چارہ - وَاحِدُ نَصِيَّةٍ

ج - أَنْصَاءٌ - جج - أَنْصِيَّةٌ -

النَّصِيَّةُ - گردن کی ہڈی - ج - أَنْصِيَّةٌ -

النَّصِيَّةُ - بِمَعْنَى نَصِيٍّ - مِنَ الْقَوْمِ أَوْ

الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا - چیدہ و برگزیدہ -

النَّصِيَّةُ - بَقِيَّةٌ - ج - نَصِيٌّ - وَ

جج - أَنْصَاءٌ وَأَنْصِي -

نَصَّ رَضًا، نَصًّا وَنَصِيضًا - الْمَاءُ -

پانی کا تھوڑا تھوڑا بہنا - رَسْنَا - نَصَّ

مَا لَكُ - سامان کا نقدی میں تبدیل ہونا

- أَسْمَى - ظاہر کرنا - الطَّارِثُ

جَنَاحِيْنٌ - پرندہ کا اپنے بازوؤں کو

ہلانا - الْعُودُ - کڑی سے جلنے میں

دوسرے سے پر پانی نکلا - مَشْكٌ كَا

زبادہ بھرنے سے پھٹ جانا۔

نَصَّ رَضًا، نَصِيضًا - الْأَمْرُ - ممکن ہونا

خَذُ مَا لَصَّ لَكَ مِنْ دَيْنٍ أَوْ ثَمَرٍ

بِجَمْعٍ - بَاحِثٌ لَمْ يَلَوْ -

نَصَّصَ - الرَّجُلُ - بہت روپوں اور

اشرفیوں والا ہونا - الشَّيْءُ - حرکت

دینا - ہلانا۔

أَنْصَ وَتَنْصَقُ - الْحَاجَةُ - حاجت

پوری کرنا۔

تَنْصَقُ وَاسْتَنْصَقَ - حَقَّةٌ مِنْ

فُلَانٍ - کسی سے اپنا حق تھوڑا تھوڑا

وصول کرنا - تَنْصَقُ فُلَانًا -

براگبخت کرنا۔

اِسْتَنْصَقَ مَعْرُوفًا - تھوڑا تھوڑا کر کے

فائدہ حاصل کرنا۔

النَّصَقُ - مہم - سونے و چاندی کے سکے۔

أَمْرٌ نَصَقٌ - مکر وہ امر۔

النَّاهِشُ - فَا. چاندی سوتے کے سکتے۔ اَمْرُو
 نَاهِشٌ - مَنکُ امرِ مَاءِ نَاهِشٌ - دیر تک
 ٹھہرنے والا پانی۔
 النَّصَانُ - مَقْوَرٌ اَقْوَرٌ اَفَادَهُ حَاصِلُ كَرْنَا۔
 النَّصَانُ مَضَعٌ - مِنَ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ - بَجَا
 بِوِطَانِي وَغَيْرِهِ - مَقْوَرٌ اَبَانِي - آخِرِي بَجَا
 بِمَوْضِعٍ نَصُوضٌ - وَهُوَ كَمَا جَسَ سَ
 پانی رے۔
 النَّصِيطُ - مِمَّ مَقْوَرٌ اَسَا پَانِي وَغَيْرِهِ - ج۔
 نَصَانٌ - رَجُلٌ نَصِيطٌ الدَّخْوُ
 کھ گوشت آدمی - جَاءَ الْقَوْمُ
 باقصر نَصِيطٌ يَهْجُوهُ - قَوْمِ اِنِي آخِرِي
 جماعت تک کولانی۔
 النَّصِيطَةُ - مَقْوَرٌ اَبَانِي - ج۔ اَنْصَتَهُ
 وَنَصَائِطُ - اِبِلٌ نَصِيطَةٌ وَ
 نَصَائِطُ - سِرَابٌ نَهْ سُونِے والے
 پیا سے اونٹ - النَّصَائِطُ - گرم
 پتھر پر گوشت بھننے کی آواز - واحد
 نَصِيطَةٌ۔
 نَضَبٌ (ن) نَضَبًا - الْمَاءُ - پَانِي كَا جَارِي
 ہونا - ہنا - نَضَبٌ عَمْرُو - عمر
 ختم ہونا۔
 نَضَبٌ (ن) نَضَبًا - الْمَاءُ - پَانِي كَا
 زمین میں جذب ہونا - عَنِ الشَّيْءِ
 کشادہ ہونا - اَلْخَيْرُ كَمَ ہونا -
 حَيْثُ - اَكْمَدَ دَهْنُ جَانَا - نَضَبَتِ
 السَّفَارَةُ - رَغِيَتَانِ كَا دَوْرَتِ
 پھیل ہوا ہونا - نَضَبَتِ الْقَوْمُ - لوگوں کا
 دور ہونا - فَلَانٌ - مَرَا - نَضَبَ
 مَا لَوْ الْوَجْهَ - بے شرم ہونا - فَلَانٌ
 اَلثَوْبَ - کپڑا اتارنا۔
 نَضَبٌ - الْمَاءُ - پَانِي كَا زَمِينِ مِيں بیٹھ جانا
 نَضَبَتِ الدَّاقَةُ - اَوْثَنِي كَا دَوْدَه
 سے سوکھ جانا
 اَنْضَبَ - اَرْفُوسٌ مَكَانِ كَا تَانَتْ كُو بھینچنی

تاکہ وہ آواز دے۔
 النَّاضِبُ - فَا - عَدِيْرٌ نَاضِبٌ - خشک
 تالاب - مَكَانٌ نَاضِبٌ - دور کی جگہ
 ج۔ نَضِبٌ۔
 النَّضِيبُ - اِيكٌ خَارِدٌ اَرْدَخْتِ - ج۔
 تَنَاضِبٌ۔
 نَضِيجٌ دَسٌ نَضِيجًا - اَلْمَرُ اَو الدَّخْوُ -
 پھل یا گوشت کا پکنا - مَفَتٌ نَاضِيجٌ
 وَنَضِيجٌ - دَسٌ وَنَضِيجَتِ الدَّاقَةُ
 اونٹنی کے بچے دینے کی مدت کا گزر جانا۔
 اور اس کا بچہ نہ دینا۔
 اَنْضَبَ - اَلْمَرُ اَو الدَّخْوُ - پھل یا
 گوشت کو پکانا۔
 اِسْتَنْضَبَ - اَلْمَرُ اَو الدَّخْوُ - بکری کے پائے
 پکانا۔
 اَلنَّضِيجُ وَالنَّضِيجَةُ - پختگی۔
 نَضِيجٌ الرَّامِي - مضبوط رائے والا۔
 اَلْمَنْضَاجُ - گوشت بھوننے کی سیخ۔
 نَضَجَ رَفَضٌ نَضَجًا - اَلْبَيْتُ بِالْمَاءِ -
 گھر میں پانی چھڑکنا - عَلَيْهِ الْمَاءُ -
 کسی پر پانی چھڑکنا - اَلْجَلْدُ كَهَالُ
 کو تر کرنا - عَطَشُهُ - پیاس بھانا۔
 سیر ہو کر نہ پینا - اَلْبَعِيرُ الْمَاءُ -
 کھیت میں ڈالنے کے لیے نہر یا کنوئیں
 سے پانی لانا - فَلَوْنَا بِالْمِئَلِ - تیر
 انارزی کرنا - نَضِيجٌ عَنْ نَفْسِيهِ -
 مدافعت کرنا۔
 نَضِيجٌ الزَّوْعُ - کھیتی کا زمردار ہونا -
 اَلشَّجَرُ - درخت کا کلی دار ہونا -
 اَلنَّضِلُ - درخت خرابا کو اونٹنی کے ذریعہ
 پانی لاکر سیراب کرنا۔
 نَضَجَ رَفٌ نَضَجًا وَنَضَجًا - اَلْاِنَاءُ
 برتن کا رینا - اَلْقَرَسُ - گھوڑے کا
 پسینہ بہانا - نَضَجَتِ الْعَيْنُ - آنکھ
 کا آنسو بہانا - اَسْمَاءُ الْقَوْمِ - پانی

برسانا۔
 اَنْضَعُ - بِمَعْنَى نَضَعُ - عَرْضٌ فَلَانٍ -
 آبرو خراب کرنا۔
 نَاضَعٌ مَنَاضِعُهُ - عَنْ كَذَا - مَدَافَعَتِ
 کرنا۔
 تَنْضَعُ - مِنْ فَلَانٍ - بری ہونا۔
 اَنْتَضَعُ - الْمَاءُ عَلَيْهِ - پَانِي كَا چھڑکنا
 (دَسٌ اَسْتَنْضَعُ) اَلْمَتَوَضِعُ - وضو
 کرنے والے کا وضو کے بعد رومالی پر
 پانی چھڑکنا۔
 اَلنَّضَعُ - مِمَّ - پَانِي كَا چھڑکاؤ - پَانِي جَسَ
 کھیت سیراب کریں۔
 اَلنَّضَعُ - پَانِي كَا طَرَحَ رَفِيقٌ حِيزٌ - ج۔ نَضُوحٌ
 وَانْضَعُهُ -
 اَلنَّضَعُ - حَوْضٌ - ج۔ نَضُوحٌ وَانْضَاحٌ -
 اَلنَّضِيجُ - حَوْضٌ - لِسِينَةٍ - ج۔ نَضِيجٌ -
 اَلنَاضِعُ - فَا - پَانِي لَادَنَے کا اونٹ -
 مَوْنَتٌ نَاضِعَةٌ - ج۔ كَوَا ضَمُّ بَارَشِ
 پانی چھڑک کر سیراب کی ہوئی جگہ۔
 اَلنَّضَاحُ - مَبَالِغُ كَے لیے - كَهْمُورٌ كُو سِرَابِ
 کرنے والا - پَانِي لَادَنَے کے اونٹ کو
 ہانکنے والا - مَوْنَتٌ نَضَاحَةٌ - قَوْسٌ
 نَضَاحَةٌ بِالْبَلْبَلِ - تیر عمدہ پھٹکنے
 والی کمان۔
 اَلنَّضُوحُ - اِيكٌ قَسْمٌ كُو شَوْبُو - مَنَ مِيں
 ڈالنے کی دوا۔
 اَلنَّضَاحُ - لِسِينَةٍ -
 اَلْمَنْضَحَةُ وَالنَّضَحَةُ - پَانِي چھڑکنے
 کا آلہ - جھارہ۔
 نَضَحَهُ دَفٌ نَضَحًا - چھڑکنا - تَرَكْنَا -
 نَضَحَهُ دَفٌ نَضَحًا وَنَضَحَانَا - الْمَاءُ
 پانی کا چشمہ سے زور سے پھوٹنا۔
 نَاضَحَهُ مَنَاضِحُهُ وَنَضَحًا - اِيكٌ
 دوسرے پر چھڑکنا۔
 اَنْضَحَ وَانْضَاحًا - عَلَيْهِ الْمَاءُ - پَانِي



کا گزنا۔

لَا تُنْصَحُ بِمِطْرٍ بِرُغْوِشٍ لَوْ كَانَ لَشَانٍ۔

النَّصْحَةُ۔ بوجھار۔

النَّصَاحُ۔ موسلا دھار بارش۔ عَلَيْنُ

كَمَاحَةً۔ اپنے والا چشمہ۔

الْمُنْصَحَةُ۔ پانی چھڑکنے کا آلہ۔ جھارہ

جہ۔ مَنَاصِحُهُ۔ عام لوگ اس کو

مَرَشَّةٌ يَأْكُلُهَا شَتَّى كَيْتِي هِي۔

تَصَدَّ رَضٍ كَصَدَا وَتَصَدَّ السَّمَاعُ۔

سامان کو ایک دوسرے پر چیننا۔ یا

ظہیر لگانا۔ صفت مفعولی۔ مَنُصُّودٌ

وَنُصِيدٌ وَنُصِيدٌ۔

تَنْصُدُّبِ الْأَسْنَانِ وَنُحُوها۔ دانتوں

کا یا ترتیب ہونا۔

لَا تُنْصَدُّ الْقَوْمُ بِمَكَانٍ كَذَا قَوْمٌ كَمَا

کسی جگہ اکٹھا ہونا۔ ٹھہرنا۔

النَّصْدُ۔ گھر کا چنا ہوا سامان۔ نَحْتُ۔ تہ

بہ تہ بادل۔ عزت و شرافت۔ جہ۔

النَّصَادُ۔ انْصَادُ الْقَوْمِ۔ آدمیوں

کی جماعت۔

النَّصَادُ۔ الرَّجُلُ۔ آدمی کے شریف چچا

اور ماموں۔ انْصَادُ الْيَحْيَالِ اِد

السَّحَابِ۔ تہ بہ تہ پہاڑ یا بادل۔

ر۔ والنَّصُودُ جہ۔ انْصَادُ وَنُصْدُ۔

موٹی اونٹنی۔

النَّصِيدَةُ۔ بھری ہوئی چیز۔ بھیکہ۔ جہ

نَصَائِدُ۔

الْمُنْصَدَّةُ۔ گھر کا سامان رکھنے کی ٹیبل۔

نَصْرُكَ دَنٍ وَنَصْرُكَ دَنٍ وَنَصْرُكَ دَنٍ

نَصْرًا وَنَصْرَةً دَنْظَرًا وَنُصُورًا

وَنَصَارَةً۔ الْوَجْهَ اَوِ الْوَلَوْنَ اَوِ

الشَّجَرُ وَغَيْرِهَا۔ طام و نازہ اور

خوبصورت ہونا۔ صفت ناظر و

لَظِيْرٌ وَنَظِيْرٌ۔

نَصْرُكَ دَنٍ نَصْرًا وَنَصْرُكَ دَنٍ اللّٰهُ۔

ترو تازہ بنانا۔

النَّظَرُ ترو تازہ ہونا۔ الشَّجَرُ۔ درخت کا

سبز پتے والا ہونا۔

النَّظَرُ۔ الشَّيْءُ۔ سرسبز پانا یا شمار کرنا۔

النَّظَرُ۔ جہ۔ نَصَارٌ وَالنَّظَرُ اِلَيْهِمْ وَ

النَّظَرُ اِلَيْهِمْ وَالنَّظَرُ۔ سونا چاندی۔

النَّصَارُ۔ ہر خالص شے۔ خالص سونا۔

النَّصَارُ وَالنَّصَارُ۔ جھاڑو کا درخت۔ برتن

بنانے کے کام کی عمدہ لکڑی۔

النَّاصِرُ۔ خوبصورت۔ نرم و نازک سبز کا ہی

شوخی رنگ۔

النَّصْرَةُ۔ نعمت جُسن۔ رونق۔ دولت مندی۔

پگھلایا ہوا سونا۔

نَصَفَ (ن ص) نَصْفًا وَنَصْفَ (ن ص) نَصْفًا

نَصْفًا وَنَصْفًا۔ الْفَصِيلُ

مَا فِي الْفَرْجِ اَوَّلُهُ۔ اونٹنی کے بچہ کا

تمام دودھ جو س لینا۔

نَصْفَةُ (ن ص) نَصْفًا خُرْتُ كَرْنَا۔ نَصَفَ

الْحِمَارُ۔ گدھے کا گوز کرنا۔

النَّصَفُ۔ الْجَمَلُ۔ اونٹ کا دُکلی چلنا۔

۔ الرَّجُلُ۔ کسی کا ہمیشہ جنگلی

پودینہ کھانا۔

النَّصَفُ۔ مہم۔ جنگلی پودینہ۔

النَّصْفَانُ۔ دُکلی چال۔

النَّصِفُ وَالنَّصِيفُ۔ ناپاک۔

النَّاصِفُ۔ فَا۔ دے۔ وَالْمُنْصَفُ، بہت

گوز کرنے والا۔ جہ۔ مَنَاصِفُ۔

نَصَلَهُ دَنٍ نَصْلًا۔ تیر اندازی میں

غالب آنا۔

نَصَلَ (ن ص) نَصْلًا۔ الْبَعِيْرُ۔ اونٹ کا

لاغر ہونا۔ ٹھکانا۔

نَاَصَلَهُ نَصْلًا وَنِصْلًا اَوْ مُنَاصَلَةً

تیر اندازی میں مقابلہ کرنا۔ نَاَصَلَ

عَنْهُ کسی کی حفاظت کرنا۔ حمایت کرنا۔

النَّصْلَةُ۔ لاغر کرنا جھکانا۔

تَنْصَلَهُ۔ نکالنا۔

لَا تُنْصَلُ۔ نکالنا پسند کرنا۔

لَا تُنْصَلُ وَتَنْصَلُ۔ تیر اندازی میں مقابلہ

کرنا۔ ایک دوسرے پر فخر کرنا۔

النَّاصِلُ۔ فَا۔ تیر اندازی میں غالب۔ جہ

نُصَالُ۔

تَحْتَصِلُ۔ الرَّجُلُ۔ بہت درہم و دینار

والا ہونا۔ اِسَاقَةُ۔ زبان ہلانے کا

بے آرام کرنا۔

النَّصَاتُ وَالنَّصْنَاظَةُ۔ مِنَ الْحَيَاتِ

زبان ہلانے والا سانپ۔ ایک جگہ

قرار نہ پکڑنے والا سانپ۔ ڈستے ہی

ہلاک کر ڈالنے والا سانپ۔

نَصًا يَنْصُو نَصْوًا۔ السَّيْفُ مِنْ

عَمْدٍ۔ تلوار سونتنا یا نکالنا۔

الشَّوْبُ عَنْهُ کُپڑا اتارنا۔ الرَّجُلُ

مِنْ ثَوْبِهِ۔ ننگا کرنا۔ الْبَلَاؤُ۔ طے

کرنا۔ نَصَا الْجَوْحُ۔ زخم کا ورم اترنا

۔ الْمَاءُ۔ پانی کا خشک ہونا۔

السَّيْفُ۔ تلوار کا پار ہونا۔ نَصْوًا

وَنَصْبًا۔ الْفَرَسُ۔ الْخَيْلُ سبقت

لے جانا۔ آگے بڑھ جانا۔ نَصْوًا

وَنَصْوًا۔ الْخَصَابُ۔ خضاب کا

رنگ اتر جانا۔

النَّصِيْلُ اَنْصَاءُ۔ الْبَعِيْرُ۔ لاغر کرنا۔

الشَّوْبُ۔ کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ فَلَا نَا

دُ بَلَا جَانُورِ دِينَا۔

نَصِيْلُ تَنْصِيْبَةٍ۔ ثَوْبُهُ عَنْهُ۔ کسی کا

کپڑا اتارنا۔

تَنْصِيْلُ۔ الْبَعِيْرُ۔ اونٹ کو لاغر و دُ بَلَا کرنا۔

لَا تُنْصِيْلُ اَنْصَاءُ۔ السَّيْفُ۔ تلوار سونتنا

۔ الشَّوْبُ۔ کپڑا بوسیدہ کرنا۔

النَّصُوْلُ۔ لاغر جانور۔ مَوْنُتُ يَنْصُوْقُ۔

بوسیدہ کپڑا۔ بہت مستعمل خراب تیر پتلاتیر

لگام کا لوبا۔ جہ۔ اَنْصَاءُ۔

ن

الناصح - فامانے سے آنے والا وحشی یا

النَّطَسَةُ - بیت احتیاط کرنے والا۔

لَطِيفُ الرَّجُلِ - بِدَسْمِي وَالْأَهْمَانِ -

تَنْطَقُ - الِوَجَلُ عیب دار ہونا۔ بالیاں
پیننا۔ منہ نہ نھرت کرنا۔

النُّطَفُ - مضم۔ عیب۔ شرفساد۔

النُّطْفَةُ - صاف پانی تھوڑا یا بہت۔

سمندر۔ مرد یا عورت کا نطفہ۔

نُطَافٌ وَنُطَفٌ - (و النُّطَافَةُ)

ڈول یا مشک وغیرہ میں بچا ہوا پانی۔

النُّطَافَةُ - ہر پکنے والی چیز۔

النُّطَفَتَانِ - دو سمندر۔ بحیرہ روم و

بحیرہ قلزم۔

النُّطْقَةُ وَالنُّطْقَةُ - بالی شفاف ہوتی۔

ج۔ نُطْفٌ۔

النُّطْفُ - پلید شکل آدمی۔

النُّطُورُ - بارش والی بات۔

نُطِقَ رَضًی، نُطِقًا وَمُنْطِقًا وَنُطُونًا۔

بولنا۔ ایکٹاف۔ واضح کر کے

بیان کرنا۔

نُطْقُهُ - گفتگو کرنا۔ ٹیکا یا بیٹی باندھنا۔

نَاطِقُهُ - گفتگو کرنا۔

أَنْطَقَهُ - گفتگو کرنا۔

تَنَاطَقَ - الرَّجُلَانِ - باہم گفتگو کرنا۔

تَنْطُقُ وَانْتَلَقَ وَتَمْنَقُ - کمر میں

ٹیکا باندھنا۔ الارض بالجبالی

زمین کا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہونا۔

انْتَلَقَ بِقَوْمِهِ - اپنی قوم سے

طاقتور ہونا۔ الرَّجُلُ - گفتگو کرنا

علم منطق حاصل کرنا۔ فَدَسَهُ -

گھوڑے کو کھینچنا۔

اسْتَنْطَقَهُ - گفتگو کرنا۔ بولنے کو کہنا۔

النُّطُقُ - مرم۔ نطق ظاہری (گفتگو)

و نطق باطنی (فہم و ادراک) ہر دو

مراد ہوتے ہیں۔

النُّطْلَةُ - نطق کا اسم مرہ۔

النُّطِقُ - بولنے والا۔

النُّطَاقُ - بیٹی۔ کمر کا ٹیکا۔ جھار وار بیٹی۔

کوٹ۔ ج۔ نُطُقٌ - عَقْدَ فُلَانٍ
حُبْلَ النُّطَاقِ - فلاں آدمی جانے

کے لیے تیار ہوا یا کام کرنے کے لیے

فارغ ہوا۔

نُطَاقُ الْجَدُّنَا - وسط جوزاء کے تین

ستارے۔ انتظام اور انتظام کے

لیے ضرب المثل ہیں۔

النُّطَاقَةُ - پرچہ۔ پُرزہ۔

النَّاطِقُ - فا۔ بولنے والا۔ سمجھ دار۔

النَّاطِقَةُ - مَوْنَتُ النَّاطِقِ - کمر نفس

ناطقہ۔

النُّطُقُ - کلام۔ علم منطق۔

النُّطُقُ وَالْمُنْطَقَةُ - کمر کا باندھنے کا

ٹیکا یا بیٹی۔ ج۔ مَنَاطِقٌ - کبھی اسی

سے فعل بنا کر تَمْنَقُ کہتے ہیں۔

یعنی کمر پر ٹیکا باندھنا۔ مَنَاطِقُهُ

الْجَوْنُ - تین ستاروں کے نام

مَنْطَقَةُ الْعَوَا - ایک اور ستارے

کا نام۔

النُّطِيقُ وَالنُّطِيقُ - خوش بیان۔

النُّطُقُ - مفع۔ کمر۔ المُنْطَقَةُ - مَن

الْمَعَزُ - کمر میں سفیدی رکھنے والی

کبری۔

النُّطُقُ - رفیع الشان صاحب رسوخ۔

النُّطُوقُ - بولا ہوا۔

نُطْلُ دَن، نُطْلُ الْخَمْرِ - شراب

نچوڑنا۔ دَنُطْلُ رَاسِ الْعَلِیلِ

بالنُّطُولِ - بیمار کے سر پر دوا کا نیم گرم

پانی گرانا یا لینا۔

النُّطْلُ - مرم۔ انگور کا چھلکا۔ تھوڑا دودھ

(و النُّطْلُ) شراب کی تلچھٹ۔

ابتدائی عمدہ شراب کے بعد کی نچوڑی

ہوئی شراب۔

النُّطْلَةُ وَالنَّاطِلُ - پانی یا دودھ وغیرہ

کا گھونٹ۔ پیمانے کا فضلہ۔

النَّاطِلُ وَالنَّاطِلُ وَالنَّاطِلُ وَالنَّاطِلُ

شراب یا دودھ وغیرہ ناپنے کا برتن۔

النُّطْلُ وَالنُّطْلُ - مصیبت۔

النُّطْلُ - ہلاکت۔ موت۔ ڈول۔ ج۔

نُبَا طِلْ۔

النُّطْلَةُ - مصیبتیں۔

النُّطُولُ - دوا میں جوش دیا ہوا پانی۔ جس

سے عضواؤں دھاریں۔

النَّاطِلُ - شراب کشی کی مشینیں۔

نُطْنَطُ - الشَّيْءُ - کھینچنا۔ السَّجْلُ -

لمبے سفر والا ہونار۔ وَتَنْطُنْطُ - دور

ہونا۔ النُّطْنُطُ وَالنُّطْنُطُ و

النُّطْنُطُ - لمبے قد والا۔ ج۔

نُطَاطُطٌ وَنُطَاطُطٌ۔

نُطَاطُطُطٌ - الحَبْلُ - رسی کھینچنا۔

- الْعَزْلُ - بانا بننا۔ الْمَنْزِلُ -

دور ہونا۔ عَنِ فُلَانٍ - چپ ہونا۔

نَاطِلٌ مُنَاطَاةً - الرَّجُلُ - لمبائی میں

مقابلہ کرنا۔ باہم نزاع کرنا۔

أَنْطَى - دینا۔

تَنَاطَى - الْقَوْمُ - ایک دوسرے سے

بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تَنَاطَا الْكَلَامَ

آپس میں گفتگو یا بحث کرنا۔

النُّطُولُ - دوری۔

النُّطُولُ - دور۔ لمبا راستہ۔

النُّطَاة - کچی کھجور کا ڈنٹھل۔ ج۔ انْطَاء۔

نُظَرَدَن، وَنُظَرَدَسَ، نُظَرًا وَمَنْظَرًا۔

وَمَنْظَرَةٌ وَتَنْظَارًا وَنُظَرَانًا۔

هَالِيہ - دیکھنا۔ غور سے دیکھنا۔

نُظَرَدَن، نُظَرًا - فِي الْأَمْرِ - سوچنا۔

فکر کرنا۔ اندازہ کرنا۔ الشَّيْءُ -

انتظار کرنا۔ بَيِّنَتُ النَّاسِ - حکم کرنا

فیصلہ کرنا۔ لِلْقَوْمِ - رحم کرنا۔ مدد

دینا۔ فُلَانًا - متوجہ ہونا۔ فُلَانًا

الْأَمْرَ - مہلت دینا۔ الشَّيْءُ -

ملت سے بیچنا۔ فَلَانٌ۔ کاہن ہونا
 أَنْظَرْنِي فَلَانًا۔ میرے لیے فلاں کو
 طلب کرو۔ دَاوِی تَنْظُرُ لَإِنِّ
 دَارَهُ دُئِنَّا ظُورَ دَارَهُ۔ میرا گھر
 اس کے گھر کے مقابلے میں ہے۔
 تَنْظُرُ الدَّهْرُ إِلَى بَنِي فَلَانٍ۔
 زمانہ نے فلاں کی اولاد کو ہلاک کر
 دیا۔
 تَنَاظَرُوا مَنَاظَرَةً۔ مشابہ ہونا۔ برابر
 ہونا۔ بحث کرنا۔ تَنَاظَرُوا الْجَيْشُ
 الْأَعْيُنُ۔ لشکر دو ہزار کے قریب
 پہنچ گیا۔ فَلَانٌ يَفْلُوَانِ أَوَالِ الشَّيْءِ
 بِالْشَّيْءِ۔ مشابہ ہونا۔
 أَنْظَرَهُ۔ الدِّينُ۔ ادائیگی قرض کے
 لیے ملت دینا۔
 تَنْظُرُهُ۔ آنکھ سے بغور دیکھنا۔ دیر کرنا۔
 ملت دینا۔
 تَنَاظَرُوا۔ فِي الْأُمْرِ۔ باہم کام میں
 مشقت اٹھانا۔ بحث کرنا۔ تَنَاظَرُوا
 الْقَوْمُ۔ ایک دوسرے کو دیکھنا۔
 لَا تَنْظُرُوا۔ انتظار کرنا۔ امید رکھنا۔ دیر
 لگانا۔
 لَا تُسْتَنْظَرُ۔ انتظار کرنا۔ ملت چاہنا۔
 أَنْظُرْ۔ مِم۔ نگاہ۔ دانائی۔ علم انظر والا
 والاستدال۔ علم کام۔ فِي هَذَا
 الْأَمْرِ نَظُرٌ۔ یہ معاملہ غور کے قابل
 ہے۔ بَيْنَنَا نَظَرٌ۔ ہمارے درمیان
 اس قدر دوری ہے کہ نگاہ نہیں پہنچ
 سکتی ہے۔ نَظَرًا۔ لَإِنِّ كَذًا وَ
 بِالْأَنْظُرِ إِلَى كَذًا۔ یعنی اس کے
 لحاظ سے۔ النَظَرُ۔ قوم جس کے
 خیمے ایک دوسرے کے سامنے یا پاس
 پاس ہوں۔
 النَظَرُ۔ مثل۔ مشابہ۔
 النَظَرَةُ۔ لمہ۔ ایک نگاہ۔ ایک نظر۔

برائی بقصور، رحمت۔ مہربانی۔
 النَظَرَةُ۔ ملت۔
 النَظَرُ۔ علم استدلال۔
 النَظَرِيَّةُ۔ فِي الْإِهْتِدَادِ۔ دلیل
 سے ثابت کرنے کا محتج قضیہ۔ جہ
 نظریات۔
 النَظَارُ وَالنَظَارَةُ۔ فراست ودانائی۔
 النَاظِرُ۔ فَا۔ آنکھ کی پٹی۔ کسی
 ادارہ کا ناظم جیسے ناظر خراجیہ و
 ناظر ابیہ۔ جہ۔ نَظَار۔
 النَاظِرُ۔ پیشانی سے ناک کے نتھنوں
 تک کی پڑی۔ وہ آدمی ابن جس کو
 بادشاہ تحقیقات معاملات کے لیے
 بھیجے۔ هُوَ شَدِيدُ النَّظَرِ۔ وہ
 تمت سے بری ہے۔ النَاظِرَانِ۔
 ناک کے دو پہلوں کی دو رگیں۔
 النَاظِرُ وَالنَاظِرُوس۔ انگوڑوں کا محافظ۔
 النَاظِرُ۔ قوم کا سردار۔
 النَاظِرَةُ۔ مؤنث النَاظِرُ۔ آنکھ۔ جہ
 نَوَازِرُ۔ النَوَازِرُ۔ آنکھوں کی رگیں
 جو سر تک پہنچتی ہیں۔
 النَظَارُ۔ تیز دیکھنے والا۔ تیز گھوڑا۔
 النَظَارَةُ۔ تماشائی ناظرین۔ دور بین۔
 النَظُورُ وَالنَظُورَةُ وَالنَظِيرَةُ وَ
 النَاظُورَةُ۔ قوم کا سردار رمفرد
 جمع، مؤنث مذکر،
 النَظِيرُ۔ برابر کا۔ متساوی۔ جہ۔
 نَظَوَاءُ۔ مؤنث نَظِيرَةُ۔ جہ۔
 نَظَائِرُ۔
 نَظَائِرُ الْقَوْمِ۔ قوم کے شرفاء۔
 نَظِيرَةُ الْقَوْمِ أَدَا الْجَيْشِ وَ
 نَظُورُ تِهْمَةٍ۔ فوج کا ہر اول دستہ
 فوج کا سردار۔
 الْمَنْظُورُ۔ نظارہ۔ دیکھنے کی جگہ۔ کُنْتُ
 عَنْ هَذَا الْمَقَامِ بِمَنْظَرٍ۔ میں

اس مقام سے علیحدہ تھا۔ جہ۔ مَنَاظِرُ
 - الْمَنَاظِرُ۔ بلند زمینیں
 الْمَنْظَرَةُ۔ مِم۔ دیکھنے کی جگہ کسی چیز کی
 طرف دیکھنے والی قوم۔
 الْمَنْظَرِيُّ وَالْمَنْظَرَانِي۔ خوش نما۔
 الْمَنَاظِرُ۔ فَا۔ مثل۔
 الْمَنْظَارُ۔ آمینہ۔ جہ۔ مَنَاظِيرُ۔
 الْمَنْظُوسُ۔ مفع۔ وہ شخص جس کی بھلائی
 کی امید رکھی جائے۔ نظر بد لگا ہوا۔
 الْمَنْظُورَةُ۔ مؤنث الْمَنْظُورُ۔ مصیبت
 عیب دار عورت۔
 نَظَفَ دُنْ نَظَافَةً۔ الشَّيْءُ۔ صاف
 ستھرا ہونا۔ صَفَتْ نَظِيفٌ۔ مؤنث
 نَظِيفَةٌ۔ جہ۔ نَظَافَةٌ۔ فَلَانٌ
 نَظِيفُ السَّرَاوِيلِ۔ فلاں پاکدامن
 ہے۔ نَظِيفُ الْأَخْلَاقِ۔ مہذب۔
 نَظَفَ۔ الشَّيْءُ۔ صاف ستھرا کرنا۔
 تَنَظَّفَ۔ الشَّيْءُ۔ صاف ستھرا ہونا۔
 الْوَجِلُ۔ بتکلف صاف ستھرا ہونا۔
 نیک ہونا۔
 لَا تَنْظَفَ۔ الْفَصِيلَ مَا فِي هَرَجِ
 أُقْبَلِ۔ اونٹ کے بچے کا سب دودھ
 پی جانا۔
 لَا تُسْتَنْظَفَ۔ صاف طلب کرنا۔ سب لے
 لینا۔ خراج سب وصول کرنا۔
 نَظْمٌ دُنْ نَظْمًا وَنَظْمًا لُؤْلُؤًا
 وَنَحْوَهُ۔ موتی پرونا۔ آراستہ کرنا۔
 موزوں کرنا۔ الشَّيْءُ إِلَى الشَّيْءِ۔
 کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑنا۔ الْأُمُورُ
 برپا کرنا۔ قائم کرنا۔
 نَظَّمْتُ وَأَنْظَمْتُ۔ السَّهْلَةَ أَوْ
 الدُّجَاغَةَ۔ مچھلی یا مرغی کا انڈے
 والی ہونا۔
 تَنْظَمَ وَأَنْظَمَ دُئِنَّا كَلِمَةً۔
 الْوُؤُوءُ وَنَحْوَهُ۔ موتی وغیرہ کا پرویا



جانا۔ تَنْظَمَ وَانْتَظَمَ۔ الامرُ
کام کا درست ہونا۔ ٹھیک ہونا۔ و
انْتَظَمَ الصَّبِيدَ۔ شکار کو
نیزے یا تیر سے چھید دینا۔ تَنَاظَمْتُ
الصَّخُورُ۔ چٹانوں کا ایک دوسرے
سے ملا ہوا ہونا۔

النَّظْمُ۔ مِم۔ ٹڈی دل۔ ٹڈیوں کی
ایک قطار۔ نظم کی ہوا موزوں کلام۔
النَّظْمُ۔ بعض ستارے مثلاً ثریا۔
نِطَاقُ الْجَوَازِیِّ۔ دبران۔

النِّظَامُ۔ مِم۔ موتیوں کی لڑی کا دھاگا۔
ج۔ نَظْمٌ وَانْظُمَةٌ وَأَنَا ظَلِيمٌ۔
النِّظَامُ۔ رواج عبادت۔ ترتیب
موافقت۔ باقی عدہ فوج۔ هُمْ عَلَى
نِظَامٍ وَاحِدٍ۔ وہ ایک طرز پر
ہیں۔

الْأَنْظَامُ۔ ریتی سیڑیوں کی قطار۔ مرغی
وغیرہ کی انڈے دانے میں انڈوں کی
قطار۔ لڑی کا دھاگا۔

النَّظَامُ۔ بہت پروئے والا۔
النَّظِيمُ۔ موزوں شعر وغیرہ۔
الْمَنْظُومُ۔ مفع۔ شعر۔
الْمَنْظُمُ۔ ترتیب دینے کی جگہ۔ ج
مَكَاطِمُ۔

النَّعْمُ۔ کمزور آدمی۔
النَّعَاعُ۔ نرم و نازک گھاس۔

نَعَبَ رَفَضٌ، نَعْبًا وَنَعَابًا وَنَعِيًّا وَ
نَعْبَانًا وَنَعَابًا۔ الغراب۔
کوئے کا کانیں کانیں کرنا۔ جدائی سے
ڈرنا۔ الْمُؤَذِّنُ۔ مؤذن کا بھی بی
گردن کر کے اذان دینا۔

نَعَبْتُ رَفَضًا، نَعْبًا۔ الإِبِلُ۔ اونٹ کا
چلنے میں گردن دراز کرنا۔
النَّعْبُ۔ مِم۔ نیز ہوا۔ نَاقَةٌ نَاعِبَةٌ
ج۔ نَوَاعِبُ وَنُعُوبٌ۔ ج۔ نَعْبٌ

وَنَعَابَةٌ۔ نیز رفتار اونٹنی۔
النَّعَابُ۔ کوا۔ کوئے کا بچہ۔
الْمُنْعَبُ وَالْمُنْعِبُ۔ نیز رفتار اونٹنی۔
تیز رفتار گھوڑا۔ موقوف چلانے والا۔
نَعَتُهُ (ف) نَعْتًا۔ تعریف کرنا۔ بیان
کرنا۔ نَعَتِ الْكَلِمَةَ۔ کلمہ کی
صفت لانا۔

نَعَتَ رَسًا، نَعْتًا۔ اچھی صفات دکھانا۔
نَعَتَ رَسًا، نَعَاتَهُ۔ الرَّجُلُ۔ پیدائش
ہی سے اچھی صفات والا ہونا۔

الْفَرَسُ۔ گھوڑے کا تیز رفتار ہونا۔
أَنْعَتُ۔ الرَّجُلُ۔ خوبصورت چہرے والا
ہونا۔ اچھے اخلاق والا ہونا۔
تَنْعَتُ۔ الشَّيْءُ۔ چیز کا وصف بیان
کرنا۔

اسْتَنْعَتُ۔ الشَّيْءُ۔ بیان کرنے کی
درخواست کرنا۔

النَّعْتُ مِم۔ صفت۔ ج۔ نُعُوتٌ۔
النَّعْتُ وَالنَّعْتَةُ وَالنَّعِيْتُ وَ
النَّعِيَّةُ وَالْمُنْعِيْتُ۔ مِم
الْحَبِيلُ۔ گھوڑ دوڑ میں سبقت لے
جانے والا گھوڑا۔

نَعَتَ رَفَضًا، نَعْتًا وَانْتَعَتَ۔ الشَّيْءُ۔
لینا۔

أَنْعَتُ۔ فِي مَالِهِ۔ بے حاشوف کرنا۔
فضول خرچ کرنا۔ الرَّجُلُ۔ کسی کا
سفر کے لیے سامان لینا۔ الْقَوْمُ۔
کام میں جدو جہد کرنا۔

نَعَثَلَ۔ الشَّيْءُ۔ جمع کرنا۔ زیادہ دوڑنے
سے گھوڑے کا سُست پڑنا۔

النَّعْثَلُ۔ بوڑھا احمق۔ زنجبُو۔
النَّعْثَلَةُ۔ حماقت۔ بوڑھے کی چال۔
نَعَبَ رَسًا وَنَعَبَ رَسًا، نَعَبًا وَ
نَعُوبًا۔ اللَّوْنُ۔ خالص سفید
رنگ ہونا۔

نَعَجَتِ النَّاقَةُ فِي سَبْرِهَا۔ اونٹنی کا
تیز دوڑنا۔

نَعَجَ رَسًا، نَعَجًا۔ الْبَعِيرُ۔ اونٹ کا
موٹا ہونا۔ الرَّجُلُ۔ بھیڑ کا گوشت
کھا کر کسی کا بدبھمی میں مبتلا ہونا۔
صفت نَعَجُ۔

النَّعَجَةُ۔ بھیڑ۔ ج۔ نَعَاجٌ وَنَعَجَاتٌ۔
نَعَاجُ الدَّمَلِ۔ گائے۔

النَّاعِبَةُ۔ مِنَ النِّسَاءِ أَوِ النُّوقِ
سفید رنگ عورت یا اونٹنی۔ نَاقَةٌ
نَاعِبَةٌ۔ تیز رفتار اونٹنی، جس پر
بیٹھ کر جنگلی بھیڑوں کا شکار کیا جائے
ارض نَاعِبَةٌ۔ نرم زمین۔ ج۔ نَوَاعِبُ۔

النَّعْبُجُ۔ خالص سفیدی۔
نَعَرَفَ رَفَضًا، نَعِيرًا وَنَعَارًا۔ الرَّجُلُ
خراٹے لینا۔ الْعَوْقُ مِنَ الدَّمَ۔
رگ سے خون پھوٹ نکلنا۔

نَعَرَدَ (ف) نَعْرًا۔ فِي الْبِلَادِ۔ جانا۔
الْقَوْمُ۔ ہوش میں آنا اور جمع ہونا۔
إِلَى فُلَانٍ۔ آنا۔ نَعَرَفِي الْأَمْرُ۔
کسی کام کے لیے اٹھنا۔ کوشش کرنا۔
الرَّجُلُ۔ مخالفت کرنا۔ انکار کرنا۔

نَعَرَسَ، نَعْرًا۔ الْحِمَامُ أَوْ
الْفَرَسُ۔ گدھے یا گھوڑے کی ناک
میں مکھی گھس جانا اور اس کا بے چین
ہونا۔ صفت نَعَرُ۔

نَعَرَا۔ السَّهْحُ۔ تیر کی سیدھ دیکھنے
کے لیے اس کو نائن پر گھماتا۔
أَنْعَرَ۔ الْإِرَاكُ۔ درخت پیلو کا پھلدار
ہونا۔

النَّعْرَةُ۔ خراٹا۔ ج۔ نَعَرَاتٌ۔ نَعْرَةٌ
النَّجْدُ۔ ہوا کا بھونکا اور شدت
گرماء جو طوع نریا کے وقت ہوتی ہے
النَّعْرَةُ وَالنَّعْرَةُ۔ تکبر۔ غرور۔ مہتم
بالشان کام۔

التَّعَدَّةُ وَالتَّحَرَّةُ - ناک کا اندرونی و
بالائی حصہ، بوجہ ناک میں داخل ہونے
حرکت پیدا کرے۔ درخت پیلو کا
پھل۔ ایک قسم کی نیلے رنگ کی مکھی
جو گدھوں اور گھوڑوں کے ناک میں
گھس کر اپنا دیتی ہے۔ جہ۔ نَعْرُو
نَعْرَات۔

النَّاعِرُ - فاجحینے والا۔
النَّعْرُ - ایک جگہ نہ ٹھہرنے والا آدمی۔
مؤنث نَعْرَةٌ۔
النَّعِيرُ - مہ۔ لڑائی وغیرہ کی پیچ بکار۔
النَّعَارُ - شہر۔ فتنہ انگیز۔ چینیچنے والا۔
مؤنث نَعَارَةٌ - امراة نَعَارَةٌ
شور مچانے والی ہڈیاں عورت۔

النَّعَارُ - ایک قسم کا پرندہ۔
النَّعَارُ وَالتَّعْوُورُ - انا عُوْرُ - وہ
رگ یا زخم جس سے خون پھوٹ کر
نکل رہا ہو۔ نَبِيَّةٌ نَعُوْرٌ - دور کی
نیت۔

النَّعَارَةُ - دسنے والا مٹی کا لوٹا۔
اَنَا عُوْرُ وَالتَّاعُوْرَةُ - رہٹ۔ جہ۔
کوا عیر۔

نَعَسَ (ف، ن) نَعَسًا - اَوْنَمْنَا
صفت (ناعس) جہ۔ نَعَسٌ،
مؤنث نَاعِسَةٌ - جہ۔ نَاعِسَات
وَنَوَاعِسُ - نَعَسَ جَنْحُهُ اَوْ
رَأْيُهُ - جسم یا رائے کمزور ہونا۔
نَعَسَتِ السُّوقُ - بازار کا ٹھنڈا یا پاند
پڑنا۔

أَنَعَسَهُ - سنانا۔ فلانٌ سَسْتُ
بیٹوں والا ہونا۔
نَتْنَا عَسَ - سونے میں جان ڈالنا۔ اَوْنَمْنَا
کا بہانہ کرنا۔ اَلْبَرَقُ - بجلی کا
سُست ہونا۔

النَّعَاسُ - اَوْنَمْنَا حواس کی سُستی۔

النَّعْسَانُ - اَوْنَمْنَا والا۔ مؤنث۔ نَعْسَى -
نَعَسَهُ (ف، نَعَسًا) - اَللَّهُ - بلند کرنا۔
اٹھانا۔ ہلاکت سے بچانا۔ فقیری کے
بعد دولت مندی نصیب کرنا۔
الرَّيْبُغُ النَّاسُ - خوشحال کرنا۔
المیت - میت کا ذکر جمیل کرنا۔
كَرْفَةٌ - نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔
الشَّجْوَةُ - جھکے ہوئے درخت کو
سیدھا کرنا۔

نُعِشُ - تابوت پر اٹھایا جانا۔ صفت
(مَنْعُوشٌ) فلانٌ - پھلنے کے بعد
اٹھایا جانا۔

نَعَسَهُ وَنَعَسَهُ اَللَّهُ - اٹھانا۔ بلند کرنا
نَعَسَ فُلَانٌ فُلَانًا - نَعَسَكَ اَللَّهُ
مِنْ عَشْرَتِكَ - کہنا۔

نَتْنَعَشُ - سستی کے بعد چیت ہونا۔
سراٹھانا۔ مِنْ سَقَطِهِ - گرنے
کے بعد اٹھنا۔

النَّعْشُ - مہ۔ بقا۔ وہ چار پائی جس پر
بادشاہ کے بیمار ہونے کے بعد
اٹھاتے ہیں۔ تابوت۔ بَنَاتُ
نَعَشٍ اَلْكُبْرَى - قطب شمال کے
رُخ میں سات ستارے۔ انھیں کے
قرب میں بَنَاتُ نَعَشٍ الصُّغْرَى
کے سات ستارے ہیں۔

نَعَصَ (ف، ن) نَعَصًا - الشَّيْءُ - حرکت
دینا۔ اَلْجَرَادُ اَلارَضَ بِلَدِيْكَ
نباتات چرجانا۔

نَعَصَ (دس) نَعَصًا - جھکنا۔
نَتْنَعَصُ - حرکت کرنا۔ الرَّجُلُ - گرنے
کے بعد اٹھنا۔ غصبا کرنا۔

النَّاعِصَةُ - معاونین و مددگار۔
أَنَعَطَ - اَلْاَكِلُ - کھانے والے کا آدھا
لقمہ کھانا اور آدھا ڈال دینا۔
النَّعْطُ - کھانے اور داد و دیش میں بدتریز

لوگ۔ واحد نَاعَطٌ۔
نَاعَفَهُ مُنَا عَفَةً - دور استوں میں
چل کر ایک دوسرے سے سبقت کرنے
کی کوشش کرنا۔
أَنَعَفَ - بلند جگہ بیٹھنا۔
نَتْنَعَفُ - بلند جگہ پر چڑھنا۔ اَلْفُلَانُ
درپے ہونا۔ الشَّيْءُ - دوسرے کے
لیے چھوڑ دینا۔ اَلرَّاجِبُ - ظاہر
ہونا۔

النَّعْفُ - وادی سے بلند اور پہاڑ سے پست
ہموار جگہ۔ ریت کا اگلا یا پتلا حصہ۔
جہ۔ نَعَافٌ۔

النَّعْفَةُ - پاؤں کی پشت پر جوتے کا
تسمہ۔

النَّعْفَةُ - گیسو۔ شملہ گوشت میں خراب
گرہ۔ کجاوے کے تسمے۔ اُذُنُ
نَاعِفَةٍ وَتَعُوْفٌ وَمُنْدَعِفَةٌ -
ڈھیل کا کان۔

اَلْمَنَاعِفُ - مِنَ الْجِبَالِ - پہاڑوں
کی چوٹیاں۔

اَلْمُنْتَعِفُ - سخت اور نرم زمین کے
درمیان کی حد۔

نَعَقَ (ف، ض) نَعَقًا وَنَعِيقًا وَنَعَاثًا
وَ نَعَقَانًا - اَلْغَرَابُ - کوسے کا
کائیں کا میں کرنا۔ اَلْمُوْذَنُ مُوْذِنٌ
کا بلند آوازی سے اذان دینا۔
اَلدَّارُغَى بِعَقْمِهِ - چرواہے کا اپنی بکریوں
کو ڈانٹنا اور ملکا کرنا۔

النَّعَاقُ - بہت کائیں کائیں کرنے والا۔
- اَلنَّاعِقَانِ - جوزا کے دو ستارے۔
نَعَلَ (ف، ن) نَعْلًا - اَلْقَوْمُ - جوتے عطا
کرنا۔ نَعْلٌ وَنَعْلٌ وَنَعْلٌ - اَلدَّابَّةُ
جانور کے نعل لگانا۔

نَعَلَ (دس) نَعْلًا - جوتا پہننا۔
نَتْنَعَلُ وَنَتْنَعَلُ - جوتا پہننا۔ اَلنُّوْبُ -

کپڑے کو روندنا۔

النَّعْلُ مِمَّ جُوتَا۔ تَصْغِيرُ نَعْيَلَةٍ۔

نَعْلُ الدَّائِيَةِ۔ گھوڑے کا نعل۔ ج

نَعَالٌ وَانْعَالٌ۔

النَّعْلُ۔ تلوار کے میان کا لوہے یا چاندی

کا سرا۔ سخت و بنجر زمین۔ ج۔

نَعَالٌ۔ اخْضَرَّتْ نَعَالُ الْقَوْمِ۔

قوم کی زمین سرسبز ہو گئی۔

النَّعْلَةُ۔ ہر وہ چیز جس سے قدم کو زمین

سے بچایا جائے۔

النَّاعِلُ۔ فَا بَسَتْ جَوْتُهُ وَالْأُكُورُ خَرَّ۔

نعل بند۔

الْمَنْعَلُ وَالْمَنْعَلَةُ۔ سخت زمین۔

الْمَنْعَلُ۔ جوتے والا۔ کہتے ہیں۔ رَمَاكَ

بِالْمَنْعَلَاتِ۔ اس نے اس پر

مضبوطیاں ڈالیں۔

نَعْمَ دَفَنٌ، وَنَعْمَ دَسٌّ، نَعْمَةٌ وَ

مَنْعَمًا۔ الرَّجُلُ خُوشِحَالٌ هُونًا۔

عَيْشَتُهُ۔ زندگی کا مزے دار اور عمدہ

ہونا۔ نَعِمْتُ يَهْدَى أَعْيُنًا مِثْلَ اس

سے خوش ہوا۔ نَعِمَكَ اللَّهُ عَيْنًا

وَنَعِمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا۔ خدا تمہاری

آنکھ ٹھنڈی کرے۔ خدا تم پر فضل

کرے۔

نَعْمَ دَسٌّ، نَعْمًا۔ الْعَوْدُ۔ لکڑی کا

سرسبز و تر و تازہ ہونا۔

نَعْمَ دَكٌ، نَعْمُومَةٌ۔ زرم و ملائم ہونا

نَعْمٌ وَنَعْمًا دَمٌ، نَعْمَتٌ۔ کیسا

عمدہ۔

نَعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ۔ وَنَعْمَ رَجُلًا

زَيْدٌ۔ زید اچھا آدمی ہے۔

نَعْمَ۔ الشَّيْءُ خَيْرٌ كَزَرْمٍ وَمَلَامٌ بَنَانًا۔

الرَّجُلُ آدَمِيٌّ كَوخْشِحَالٍ كَرْنًا۔

کسی کو نعم کہنا۔ الْقَوْمُ۔ لوگوں کے

پاس ننگے پاؤں آنا۔

أَنْعَمَ۔ الشَّيْءُ۔ زرم و ملائم کرنا۔ فَلَانًا۔

آسودہ حال بنانا۔ أَنْعَمَ اللَّهُ

صَبَاحَكَ۔ خدا تمہاری صبح اچھی

کرے۔ ہمزہ اور نون کو صاف کر کے

عِمَّ صَبَاحًا يَأْخُذُ مَسَاحًا بَعْدَ

کہتے ہیں۔ أَنْعَمَ اللَّهُ النِّعْمَةَ

عَلَيْهِ وَانْعَمَ بِالنِّعْمَةِ لِعَمَتٍ

سے نوازا۔ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا۔

اللہ تمہاری وجہ سے اس کی آنکھیں

ٹھنڈی کرے جس کو تم محبوب رکھتے

ہو یا تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی

کرے جس کو تم محبوب رکھتے ہو۔

أَنْعَمَ الرَّجُلُ۔ زیادہ کرنا نِعْمَتِ

کو پہنچانا۔ الْقَوْمُ۔ لوگوں کے پاس

ننگے پاؤں آنا۔ أَنْعَمَ صَدِيقُهُ۔

دوست کو ننگے پاؤں چل کر رخصت

کرنا۔

أَنْعَمَ فِي الْأَمْرِ۔ کام میں مبالغہ کرنا۔

اچھی طرح کرنا۔ أَنْعَمَ النَّظَرُ فِي

الْمَسْأَلَةِ مِثْلَهُ فِي غَوْرٍ كَرْنًا۔

نَا عَمَّ مِّنَّا عَمَةً۔ الرَّجُلُ۔ آسودہ

حال ہونا۔ الرَّجُلُ۔ آسودہ حال

بنانا۔ الْحَبْلُ دَغِيرٌ كَرَسِيٍّ كَو

مضبوط کرنا۔

تَنْعَمَ۔ الرَّجُلُ۔ آسودہ زندگی گزارنا۔

ننگے پاؤں چلنا۔ قَدْ مَيَّيْتُ مَشْغُولٌ

کرنے۔ فَلَانًا بِالْمَكَانِ۔ ڈھونڈنا۔

الدَّائِيَةُ۔ خوب اچھی طرح ہاکنکہ۔

تَنَاعَمَ۔ عمدہ زندگی گزارنا۔

نَعْمٌ وَنَعْمٌ وَنَعْمٌ وَنَعْمٌ وَنَعْمٌ

بھی کہتے ہیں۔ ہاں۔ یہ چار معانی کے

لیے آتا ہے۔

۱۔ خبر کے بعد حرف تصدیق ہوتا ہے

مثلاً قَامَ زَيْدٌ کے جواب میں قَامَ

کے معنی دیتا ہے۔

۲۔ امر و نہی کے بعد اگر واقع ہو تو صرف

وعدہ ہوتا ہے جیسے اضْرِبْ زَيْدًا

کے جواب میں (نعم)، اَعْبِدْكَ

بِضَرْبِهِ کے معنی کو مفید ہے۔

۳۔ جب استقام کے بعد واقع ہو تو

صرف اعلام ہوتا ہے۔ جیسے اَقَامَ

زَيْدٌ کے جواب میں (نعم)، اَعْلَمَكَ

بِقِيَامِهِ کے معنی دیتا ہے۔

۴۔ صدر کلام میں اگر آجائے تو تاکید کو

مفید ہوتا ہے۔ جیسے نَعْمَ اِنَّ

رَبِّي قَادِرٌ۔

النُّعْمُ۔ خوشحالی۔ ج۔ اَنْعَمَ۔

النَّعْمُ۔ اونٹ۔ مویٹی۔ ج۔ اَنْعَامُ

جج۔ اَنَا عَيْلِمُ۔

النُّعْمَةُ۔ بہتری۔ آسودگی۔ دولت۔

مویٹی۔

النُّعْمَةُ۔ فائدہ۔ فضل۔ انعام۔ حق۔

ج۔ نَعْمٌ وَانْعَمٌ وَنِعْمَاتٌ وَ

نِعْمَاتٌ وَنِعْمَاتٌ۔ فَلَانٌ

وَاسِعٌ النِّعْمَةُ۔ فلاں بہت

ملا رہا ہے۔

النَّعْمَاءُ۔ ج۔ اَنْعَمْتُ وَالنَّعْمَى۔ بابرکت

ہاتھ۔ النُّعْمَى۔ آرام۔ آسودہ حالی۔

مال۔ سَأَفْعَلُهُ نَعْمَ عَيْنٍ وَ

نَعْمَ عَيْنٍ وَنَعْمَ عَيْنٍ وَ

وَنَعْمَ عَيْنٍ وَنَعْمَى عَيْنٍ وَ

نَعْمَ عَيْنٍ وَنَعْمَ عَيْنٍ وَنَعْمَ

عَيْنٍ وَنَعْمَ عَيْنٍ وَنَعْمَى عَيْنٍ

تمہارے اکرام کے لیے میں عنقریب

ایسا کروں گا۔

النُّعْمَةُ۔ خوشی۔ نَعْمَةُ الْعَيْنِ۔ آنکھ

کی ٹھنڈک۔

النَّعَامِيٌّ۔ جنوبی ہوا۔

النَّعَامَةُ۔ شتر مرغ (مذکور مؤنث) ج

نَعَامٌ وَنَعَامَاتٌ وَنَعَامٌ۔



مذکر کو قلیلیم، اور شتر مرغ کے گلہ
کو نبات الہیہ۔ بے وقوفی۔ اور
بھاگنے میں اس کی مثال دیکھائی ہے۔
التعامۃ۔ نفس تاریکی۔ خوشی۔ اکرام۔
جہالت۔ واضح راستہ۔ کنوئیں میں
اٹھا ہوا پتھر۔ راستہ کا نشان۔ پہاڑ
پر ساٹھان نما مارت۔ دماغ کی جھلی۔
لوگوں کی جماعت۔ ابن التعامۃ
پٹلی کی ہڈی۔ قدم یا تلوا۔ تفرقت
لعمامۃ۔ مرگیا یا کوچ کر گیا۔ جاء
کا لعمامۃ۔ محروم ہوا۔ شالت
لعمامۃ۔ مرگیا۔ شالت لعمامۃ
القوم۔ لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ
کر متفرق ہو گئے۔ خفیف التعامۃ
ضعیف العقل۔
التعام۔ بیابان۔ التعام الصادرو
الوارد۔ ستاروں کے نام۔
التعامۃ۔ چاند کی منزلوں میں سے ایک
منزل ہے جو آٹھ ستاروں سے مرکب
ہے۔ اس کی اور شتر مرغ کی ایک سی
شکل دکھائی دیتی ہے۔
التعمومۃ۔ مم۔ ملائت۔
التعمان۔ خون۔ جبرہ کے بادشاہ کا لقب۔
شقائیک التعمان۔ گل لالہ۔
الانعام۔ مم۔ انعام۔ جہ۔ انعامات۔
التاعم۔ فاء۔ من الثیاب۔ ملائم کپڑا۔
من العیش۔ آسودہ زندگی۔ من
النبات۔ سیدھا ہموار پودہ۔
التاعمۃ۔ مؤنث التاعم۔ آسودہ زندگی
والی۔ باغ۔
التعمیم۔ آسودہ حالی۔ آرام۔ مال۔ نعیم
اللہ۔ اللہ کا فضل۔
المنعم۔ جھاڑو۔
الاستعام۔ بڑا فیاض۔ کلام منعم۔
نرم کلام۔

المناعم والمناعم۔ من النبات
سیدھا ہموار پودہ۔
المنعم والمناعم۔ المنعم والمناعم و
المنعم۔ خوشحال۔ مالدار۔
لنعم۔ لسان فلان۔ زبان میں بکلاپن ہونا۔
تتعم۔ الشیء۔ مضطرب ہونا۔ جھکنا۔
عنه۔ دور ہونا۔
النعم والنعمان۔ پودینہ۔ واحد لنعمۃ
و لنعمۃ۔
النعمۃ۔ جانور کا پوٹا۔
نعم ینعمون نعماء۔ السوس۔ بلی کا
میاؤں میاؤں کرنا۔
النعم۔ ناک کے نیچے کا دائرہ۔ اونٹ کے
اوپر کے ہونٹ کا شکاف۔ گھوڑے
کے سہم کے مؤخر حصہ کی دراڑ۔ تازہ
کھجور۔
نعم ینعمی نعماً ونعمیاً۔ لنا
والیکم فلاناً۔ موت کی اطلاع دینا۔
نعمی القوم۔ قوم کو میت کے دفن
کے لیے بلانا۔ تعینہ الشیء۔ میں
نے اس کو کسی چیز کی خبر دی۔ علی
القوم شہوا تھم۔ عیب گیری
کرنا۔ هو ینعمی علی فلان
ذو لبۃ۔ کسی کے گناہوں اور عیبوں
کو ظاہر کرنا۔ شہرت دینا۔ فلان
ینعمی فلاناً۔ کسی سے قصاص
طلب کرنا۔
النعمی۔ علیہ شیئاً قبیحاً۔ کسی کو کسی
بری بات پر طعنہ دینا۔ النعمۃ
الشیء۔ میں نے اس کو خبر دی۔
تتعمی۔ القوم۔ طلب قصاص پر
اگسانے کے لیے مقتولین کی خبر موت
کو بیان کرنا۔
لستنعمی۔ القوم۔ مقتولین کی خبر موت
بیان کرنا تاکہ سب کو طلب قصاص پر

ابھارا جائے۔ لوگوں کا متفرق ہونا۔ کبھ
جانا۔ لستنعمی ذکرو فلان۔ کسی کا
ذکر مشہور کرنا۔ حبب الخمر بہ۔
شراب کی محبت کا دیر تک رہنا۔
الواعی الغلغ۔ پرواہ کا آگے ہو کر
بکریوں کو اپنے پیچھے بلانا۔
النعمۃ۔ موت کی خبر۔ جہ۔ نعمیات۔
النعمی۔ جہ۔ موت کی خبر لانے والا۔
طعن وشیع کرنے والا۔ جہ۔ ناعون
و نعاۃ و نعیان۔
النعمی۔ خبر موت لانے والا۔ جس کی موت
کی خبر دی جائے۔ نعاۃ۔ موت کی
خبر دے۔
النعمی والنعمۃ۔ موت کا پیغام۔ جہ
مناع۔
نعم د، نعماً۔ الریق۔ تھوک نکلنا۔
نعم دن، نعماً۔ الرجل فی الشرب
گھونٹ گھونٹ پینا۔
نعم د، نعماً۔ الطائر پرندہ کا
پانی پینا۔
النعمۃ والنعمۃ۔ گھونٹ۔ جہ۔ نعم۔
النعمۃ۔ برکام۔
نعمت د، نعماً۔ الشعر۔ بال کھینچنا۔
النعم۔ دائمی سحت مصیبت۔
نعمت د، نعم۔ د نعمت د، نعمیاً
ولعملاً۔ القدر۔ ہانڈی کا اُبلنا۔
نعم و نعم و نعم و نعم و نعم و نعم
علی فلان۔ غضب ناک ہونا۔
نعمت مذکر۔ نعم۔ (صفت مؤنث)
نعمۃ۔ النافۃ۔ اونٹنی کو آواز
دینا۔ بلانا۔
نعم د، نعماً۔ من الماء۔ بہت پانی
پینا۔ الرجل۔ کینہ رکھنا۔
نعم۔ الصبیح۔ بچہ کو گدانا۔ بالنافۃ
اونٹنی کو آواز دے کر بلانا۔

تَنْقُصُ الرَّجُلُ عَضْمًا مِنْ طَبْعِهِ - عَلَى فُلَانٍ - دُرُكُوهُ بَوْنًا غَضْبَانًا بَوْنًا - أَنْعَرَتِ الْبَيْضَةُ - انڈے کا خراب ہونا - تَنَا عَرًا - بھیس بردن - النَّعْرُ - مَم - کھارے پانی کا چشمہ - النَّعْرُ - بَبِل - چڑیوں کے بچے - ج - رَنْعَرَان - النَّعَار - تیز مزاج - چڑچڑا - جَوْحُ النَّعَار - بہت خون بہانے والا زخم - نَعُورُف، نَعُورَا - الصَّبِيءُ - بچہ کو گدگانا - بَيْنُ الْقَدَمِ - قوم میں فساد ڈالنا - بعض کو بعض کے خلاف اکسانا - النَّعَّاز - قنہ انگیر - نَعَشُ (ف)، نَعْشًا وَنَعْشَانًا - بے قرار ہونا - ہلنا - هُوَ يَنْعَشُ لَأَيِّ فُلَانٍ - وہ فُلَان کی طرف مائل ہے - تَنْعَشُ وَانْتَعَشَ - الشَّيْءُ - حرکت میں آنا - بے قرار ہونا - رَانْتَعَشَ وَتَنْعَشُ الرَّأْسُ بِالْقَمَلِ - سر کا جوڑوں سے بھر جانا - النَّعْشَةُ - حرکت - اضطراب - النَّعَاشُ وَانْتَعَاشُ وَانْتَعَاشِيٌّ - بہت چھوٹے قد والا - بہت پستہ قد - النَّعَاشُ - رذیل - غنڈے - نَعِصْرُ (ر)، نَعَصًا - الْبَعِيرُ - اونٹ کا سیراب نہ ہونا - الرَّجُلُ - کسی کی مراد پوری نہ ہونا - نَخَصَهُ (ف)، نَخَصًا - پانی کے حصہ سے روک دینا یا بالکل پانی پینے نہ دینا - نَخَصَ وَالنَّخَصَ - اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَيْشُ وَنَخَصَ عَيْشَهُ - زندگی کو بد مزہ کر دینا - نَخَصَ فُلَانًا - زندگی کو کد کر دینا - أَلْخَصَ فُلَانًا رَحِيحًا - کسی کے جانوروں کو چرنے نہ دینا -

نَخَصَ تَنْغِيصًا - پوری خوشگوار نصیب نہ ہونا - تَنْخَصُ - الْعَيْشُ - زندگی کا مکدر اور بد مزہ ہونا - تَنَا عَصَتِ الْإِذِلُ - اونٹوں کا بھیڑ کرنا - النَّخَصَةُ - وہ چیز جو مراد حاصل کرنے سے روک دے - ج - نَخَصَ نَخَصَ رَنَضَ، نَخَصًا وَنَخُوصًا وَنَخَصَانًا - کا پنا - ہلنا - بے قرار ہوا - نَخَصُوا إِلَى الْعَدُوِّ - دشمن کے مقابلہ کے لیے اٹھنا - الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ - حرکت دینا - نَخَصَ نَخَصًا - زیادہ ہونا - السَّحَابُ بَادِلٌ كَأَنَّهَا جَهَا جَانَا - أَلْخَصَ - الشَّيْءُ - ہلنا - بے قرار ہونا - رَأْسَهُ - تعجب یا مسخری سے سر ہلانا - النَّعْصُ - چلنے میں کانپنے والا - سر ہلانے والا - اِنَّا غَضِبْنَا - ج - نَخَصْنَا - اِنَّا غَضِبْنَا مِنَ الْإِنْسَانِ - گروں کی جھڑ - غَيْمٌ نَا غَضِبْنَا - ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والے بادل - ر - د - النُّعْصُ (ف) مِنَ الْكَتِفِ - مونڈے کے کنارے کی پتلی ہڈی - النَّعَاضُ - مِنَ السَّحَابِ - آگے پیچھے چلنے والے بادل - رَجُلٌ نَخَاضُ الْبَطْنِ - موٹے پیٹ والا کہ بسبب موٹاپے کے پیٹ پر ٹپیں پڑی ہوں - النُّعُوضُ - بڑے کوٹان کی اونٹنی - نَخِصْتُ (ر)، نَخَصًا - الْبَعِيرُ - اونٹ کی ناک میں کیڑا ہونا - النَّعْصُ - مَم - اونٹ اور بکری کی ناک میں پیدا ہونے والا کیڑا - واحد نَخَفْتَنَ النَّعْفُ - خشک رینٹ - نَعَقَ (ف) نَخَا وَنَعِيقًا - الْغُرَابُ -

کوڑے کا کائیں کائیں کرنا - النَّعَاقُ - بہت کائیں کائیں کرنے والا - نَخَلُ (ر)، نَخْلًا - الْجَدُّ - کھال کا دباغت میں خراب ہونا - الْجَرَحُ - زخم کا خراب ہونا - زخم میں چورہ جانا - نَخَلْتُ نَيْشًا - نیت بگڑ جانا - نَخَلْتُ قَلْبَهُ عَلَى - کینہ رکھنا - بَيَّحَهُم - فساد ڈالنا - چنچوری کرنا - نَخَلُ - رَك، نَخُولًا - الْمُوَدُّ - سب بگڑنا - النُّخْلَةُ - اسم مصدر - أَلْخَلُ - الْجَدُّ - چیرا نگلیں میں خراب کر دینا - اسم النُّخْلَةُ - النُّخْلُ - مَم - لوگوں کے درمیان شرانگیزی چنچوری - النُّخْلَةُ - چنچوری - النُّخْلُ وَالنُّخْلُ - مُنْثَ نَخْلَةٍ - وَنَخْلَةٍ - وَالنُّخْلُ - خراب - فاسد - حرامی بچہ - النُّخْلَةُ - چڑے کو خراب کرنے والا کیڑا - نَخَمَ (ر) نَخَمًا وَنَخَمًا - نَخَمًا وَنَخَمًا - الرَّجُلُ - گانے میں سُرنکالنا - نَخَمَ فِي الشَّرَابِ - ٹھوڑا سا پینا - سَكَتَ فَمَا نَخَمَ - رَحُوفُ - خاموش ہوا اور ایک حرف نہیں بولا - نَاغَمَهُ مُنَاغَمَةً - بہت آہستہ گفتگو کرنا - النُّغْمُ وَالنُّغْمُ - گانے میں سُرن - ج - أَنْغَامٌ - ج - اِنَّا غَنِمْنَا - بہت سُرنکالنے والا - النُّغْمَةُ وَالنُّغْمَةُ - سرلی آواز - ج - نَغَمَاتٌ - نَغَا يَنْغُوا نَغْوًا دَلَّغِي يَنْغِي نَغِيًا وَانْغِي - رَاكِبُهُ - صاف صاف بات کرنا - نَاغِي - الصَّبِيءُ - بچہ کو باتوں سے خوش کرنا - الْمَرْأَةُ - عورت سے عشق بازی کرنا - الرَّجُلُ - مقابلہ کرنا - قَرِيبٌ بَوْنًا -

غالب ہونے کی کوشش کرنا۔ المَوْجُ
السَّحَابِ۔ موج کا بادل کی طرف
اٹھنا۔

تَنَاقَى۔ القوم۔ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا
غالب آنے کی کوشش کرنا۔

النَّاعِيَّةُ۔ کلمہ۔

النَّعْوَةُ وَالنَّعِيَّةُ۔ نغمہ۔ مَر۔ عمدہ
کلام۔ افواہ۔

تَمَّارِن، تَمَّارٌ۔ الارض۔ زمین میں کوئی
چیز بونا۔

تَمَّارِس، تَمَّارٌ۔ السَّوِيقُ۔ ستوپھا تنکنا۔
النَّفْعِيُّ۔ ستوپھا تنے کی میز وغیرہ۔ ج۔

تَمَّارِيٌّ۔
النَّفْيِيَّةُ وَالنَّفْيَةُ وَالنُّفْيُ۔ کھجور کی پتیوں
کا بنا ہوا گول دسترخوان۔

النَّفِيْفُ۔ اونٹ کے پالان کا تنگ۔
النُّفَا۔ نباتات کے متفرق قطعات۔ چھوٹے
باغ۔ نازک چھوٹے پودے۔ واحد
(نُفَاةٌ)

تَفَتَّتْ (رض)، تَفَّتْ وَتَفَّتْنَا وَتَفَيْنَا وَ
تَأَقَّتْ۔ القِدْرُ۔ لٹدی کا زور
سے اُبلنا۔ صفت تَقَوْتُ۔

تَفَّتْ وَتَأَقَّتْ۔ الرَّجُلُ۔ غضبناک ہونا
غصہ میں بھر جانا۔

النَّفْيِيَّةُ۔ وہ آٹا جس پر پانی یا دودھ ڈالا
جائے۔

تَفَّتْ (رض)، تَفَّتْنَا وَتَفَّتْنَا۔ البَصَاقُ
مِنْ فِيهِ۔ منہ سے ٹھوک پھینکنا۔
الْبَصْرُ الدَّمُ۔ زخم کا خون نکالنا۔
الرَّجُلُ۔ ٹھوکنا۔ تَفَّتَتْ الْحَيَّةُ
السَّحَرُ۔ سانپ کا زہر نکالنا۔

الْقَلْعُ۔ لکھنا۔ فلاں کسی پر جادو
کرنا۔ تَفَّتْ اللهُ فِي قَلْبِهِ۔ خدا
نے اس کے دل میں ڈالا۔ تَفَّتْ فِي
رُوعِي۔ مجھے الہام ہوا۔

تَأَفَّتْهُ مُنَافَتُهُ۔ پوشیدگی میں بات کہنا۔
النَّفْتُ بمص۔ بلغم۔ تَفَّتُ الشَّيْطَانُ غَزْلِيه
اشعار۔ مَا أَحْسَنَ تَفَّتَاتِ فَلَانٍ۔
فلاں کے شعر کیسے اچھے ہیں۔

النُّفَاةُ۔ ٹھوک۔
النَّافِثُ وَالنَّفَاثُ۔ جادوگر۔ مؤنث
تَأَفَّتْهُ دَفَاةً۔

النَّفِيْفُ۔ رخم سے بہنے والا خون۔

الْمَنْفُوثُ۔ جادو کیا ہوا۔
نَفَجَ (رض)، تَفَجَّ وَتَفَجَّانَا وَتَفُوجًا۔
الْأَرْنبُ أَوْ الْبَرْبُوعُ۔ خرگوش یا
جنگلی چوہے کا دوڑ کر نکل جانا۔

تَفَجَّتِ الرَّيْحُ۔ ہوا کا تیزی سے
چلنا۔ الطَّرِيقُ بِالْقَوْمِ۔ راستہ
میں قوم کا اچانک نمودار ہونا۔ تَفَجَّ
تَفَجَّجًا۔ الْإِنْسَانُ۔ جھوٹا فخر کرنا۔
الْفَرُوجَةُ۔ انڈے سے مرغی کے
بچے کا نکلنا۔ الْأَرْنبُ وَغَيْرَهَا۔
خرگوش کو بھڑکا کر نکلنا۔ الشَّيْءُ۔

اٹھانا۔ السِّقَاءُ۔ مشک بھرنے۔
أَنْفَجَ۔ الْأَرْنبُ۔ خرگوش کو بھڑکا کر
نکالنا۔ الْحَالِيْبُ۔ دوہتے وقت
بزن کو بھن سے علیحدہ کرنا۔

تَنْفَجَ وَانْتَفَجَ۔ بلند ہونا۔ الرَّجُلُ۔
غیر واقعی صفات پر فخر کرنا۔
انْتَفَجَ۔ الْأَرْنبُ۔ خرگوش کا دوڑنا۔
کوڑنا۔

انْتَفَجَ۔ الشَّيْءُ۔ نکالنا ظاہر کرنا۔
النَّافِجُ۔ فا۔ کرخت آواز۔

النَّافِجَةُ۔ مؤنث النافجہ۔ بہت بارش
برسانے والا بادل۔ ہوا کا زور کا
جھونکا۔ بیٹی۔ آخری پسلی۔ مشک کا
برتن۔ نافہ۔ ج۔ نَوَافِجُ۔

النَّفَاجُ۔ مغرور۔ متکبر۔
النَّفَاجَةُ۔ آستین کے نیچے کا مربع پارچہ۔

النَّفِيْبَةُ۔ کمان۔ ج۔ نَفَائِجُ۔
النَّفِيْبُ۔ قوم میں اجنبی۔ ج۔ نَفِجُ۔
النَّفَجُ۔ بوہل اور سست لوگ۔
هُوَ نَفَجُ الْحَقِيْبَةِ۔ وہ موٹے
مُزِن والا ہے۔

الْأَنْفَجَانِيْ۔ کلام میں افراط کرنے والا۔
الْمَنْفُوجُ۔ وسیع پہلوؤں والا اونٹ۔
تَفَجَّ (رض)، تَفَجَّ وَتَفَجَّانَا وَتَفُوجًا وَ
تَفَاجًا۔ الطَّرِيقُ۔ خوشبو مہکنا۔

تَفَحَّتِ الرَّيْحُ۔ ہوا کا چلنا۔ تَفَحَّ الْعَرَقُ
رگ سے خون نکلنا۔ تَفَحَّتْ۔

الدَّائِبَةُ الْوَجُلُ۔ کھر کے سرے سے
جانور کا آدمی کو مارنا۔ تَفَحَّ فَلَانًا

بِالسَّيْفِ۔ تلوار کی ہلکی سی ضرب لگانا
تَفَحَّهُ يَكْدًا۔ دینا۔ تَفَحَّ كَمَتَهُ
کٹکھا کرنا۔ الشَّيْءُ۔ بٹانا۔ تَفَحَّدُ
مُنَا حَفَّةً۔ جھگڑا کرنا۔

تَفَحَّ۔ عَنِ فَلَانٍ۔ کسی کی جانب سے
مداغت کرنا۔

انْتَفَحَّ۔ يَفُلَانٍ۔ مقابلہ کرنا۔ اِلَى مَوْضِعٍ
واپس آنا۔

النَّفَحُ۔ مص۔ النَفْحُ مِنَ الرَّيَاحِ۔ سردی
میں ہوا کا چلنا۔ اور گرمی میں ہوا کے چلنے
کو النَّفْحُ کہتے ہیں۔

النَّفْحَةُ۔ ہوا کا جھونکا۔ تيز بُوجْش۔ خون
کا فوارہ۔ ج۔ تَفَحَّاتُ۔

النَّفُوحُ۔ مِنَ النُّوقِ۔ وہ اونٹنی جس کا
دودھ ٹپکتا رہے۔ مِنَ الْقَبِيْ۔

تیز دور پھینکنے والی کمان۔ يَنْفُجُ
تفوج۔ تیز چلنے والی ہوا۔

النَّفَاحُ۔ فِياضُ۔ طَعْنَةُ نَفَاحَةٍ۔ زور
سے خون نکالنے والا نیزہ۔

النَّفِيْبُ وَالْمَنْفَعُ۔ بے جا مداغت کرنے والا۔
الْإِنْفَاحَةُ وَالْإِنْفَاحَةُ۔ و

الْمِنْفَاحَةُ۔ بکری کے بچے کے معدہ کا پینہ۔

نَقَدَ (ن) نَقَحًا وَنَقَحَ - بِفَعْلِهِ -
 بھونک مارنا۔ نَقَحَ الصُّحُی - دن
 چڑھنا۔ نَقَحَتِ الرِّيحُ - ہوا کا
 اچانک چلنا۔ نَقَحَ شَدَّ قَبْلَهُ - تکبر
 کرنا۔ نَقَحَ الشَّيْطَانُ فِي أَنْفِهِ -
 اپنے متعلق ایسی ڈینگ مارنا جس کی
 کوئی حقیقت نہ ہو۔ نَقَحَ الطَّعَامُ
 سیر کرنا۔
 تَنَقَّحَ - بھوننا۔ اِنْتَقَحَ - بھوننا۔
 اِنْتَقَحَ - الشَّيْءُ - چیز کا بلند ہونا۔
 اِنْتَقَحَ - دن چڑھنا۔ الرَّجُلُ -
 بڑا بننا۔ تکبر کرنا۔
 النَّفْعُ - مصلحت۔ فخر۔ تکبر۔
 النَّفْعُ - جانوروں کے ٹخنے کا ورم۔
 النَّفْعُ - بھری جوانی والا۔
 النَّفْعَةُ - سانس۔ ریح۔ نَفْعَةُ
 الشَّيْبَابِ - بھری جوانی۔ نَفْعَةُ
 الرِّبَيعِ - موسم بہار کی تروتازگی۔
 لُفْخَا - ورم۔ پھیلاؤ۔
 لُفْخَا خَلَّةٌ - پانی کا بلبہ۔ جھیلی کے پیٹ کے
 اندر کا پھلنا۔ جہ۔ لُفْخَا خَات -
 اِنْفَاخُ - فا۔ مابالدار اِنْفَاخُ مَزْمَلَةٌ -
 گھریں کوئی نہیں۔
 اِنْفَاخُ (ج) بجا لے یا فوخ کے) چندیا۔
 اِنْفَاخُ - مصلحت۔ آگ بھونکنے پر مقرر کیا ہوا۔
 رَجُلٌ اِنْفُخَانٌ وَ اِنْفُخَانٌ - د
 اِنْفُخَانِي - پر گوشت موٹا۔
 اِنْفُخَانُ وَ اِنْفُخَانُ - لوہار کی دھونکی۔ جہ
 مَنَافِيخُ وَ مَنَافِيخُ - مَنَافِيخُ
 الشَّيْطَانِ شَيْطَانِي وَسُوسَةٌ -
 اِنْفُخَانُ - مصلحت۔ بڑے پیٹ والا۔ موٹا۔
 بزدل۔
 نَقَدَ (د) نَقَدًا وَ نَقَادًا - الشَّيْءُ -
 ختم ہونا۔ فنا ہونا۔
 نَقَدَ (د) نَقَدًا - القوم - لوگوں سے

آگے بڑھ جانا۔
 اَنَقَدَ - القوم - قوم کا مال اور توشہ ختم
 ہونا۔ اَنَقَدَتِ اِیْمُو کُنُوبِ کے
 پانی کا سوکھ جانا۔ اَنَقَدَ اِشْی -
 چیز کو خرچ کر دینا۔ القوم - لوگوں
 کو چیر کر ان میں گھسنا اور بیچ میں
 چلنا۔
 نَاقَدٌ مَثَاقِدَةٌ - باہم حاکم کے پاس
 جانا۔ جھگڑا کرنا۔ ایک دوسرے کی
 حجت کو باطل کرنا۔
 اِنْتَقَدَ وَ اِسْتَقَدَ - الشَّيْءُ - فنا کرنا۔
 خرچ کرنا۔ اِسْتَقَدَ دُسْعُهُ - اپنی
 پوری طاقت لگا دینا۔ اِنْتَقَدَ
 اَلْحَقُّ - پورا حق لے لینا۔ اَلْبَنَ -
 دودھ دوہنا۔
 تَنَاقَدَ اَلْمُخَصِّمَانِ اِلَى الْقَاضِي - اپنا
 فیصلہ قاضی کے پاس لے جانا۔ تَنَاقَدَ
 الْقَوْمُ - آپس میں جھگڑنا۔
 اَلْمُنَاقِدُ - فا۔ مقدمہ باز۔ جھگڑالو۔
 اَلْمُنْتَقِدُ - فا۔ قَعْدًا مُنْتَقِدًا - وہ
 الگ رہا۔
 اَلْمُنْتَقِدُ - مصلحت۔ مصلحت فی ہذا الشَّيْءِ
 مُنْتَقِدٌ عَنْ غَيْرِهِ - اس چیز میں
 بہ نسبت غیر کے وسعت ہے۔
 نَقَدَ (د) نَقَدًا وَ نَقَادًا وَ نَقَادًا -
 اِشْی اِشْی - پھید کر پار ہو جانا۔
 نَقَدَ اَلسَّهْمُ الرَّمِيَّةَ وَ فِيْهَا
 مِنْهَا - تیر کا تیر میں لگ کر پار ہو
 جانا۔ فَلَانُ الْقَوْمِ - قوم سے آگے
 گزر جانا۔
 نَقَدَ (د) نَقَدًا وَ نَقَادًا - اَلْأَمْرُ
 اَوِ الْقَوْلُ - حکم یا قول پورا ہونا۔
 نَقَدَ اَلطَّرِيقُ - راستہ کا شاہراہ ہونا۔
 صَفَتُ (نَاقِدًا) نَقَدَ اَلْكِتَابَ اِلَى
 فَلَانٍ - پہنچنا۔ نَقَدَ الرَّجُلُ فِي

اَلْأَمْرِ - کام کامیابی سے چلانا۔ نَقَدَ
 رُوحَهُ - اپنی حالت پر گزرنا۔
 نَاقِدٌ - فیصلہ کے لیے جانا۔
 نَقَدَ وَ اَنَقَدَ - اَسْهَمَ - اَلرَّمِيَّةَ
 تیر کو تیر کے پار کر دینا۔ اَلْكِتَابَ
 اِلَى فَلَانٍ - کتاب کسی کے پاس بھیجنا۔
 اَلْحَاكِمُ اَلْأَمْرَ - حکم نافذ جاری
 کرنا۔ اَلرَّجُلُ الْقَوْمِ - قوم کے بیچ میں
 چلنا۔ آگے گزر جانا۔ اَنَقَدَ عَهْدَهُ -
 عمل میں لانا۔
 تَنَاقَدَ - الْقَوْمُ اِلَى الْحَاكِمِ - فیصلہ
 کے لیے پیش کرنا۔
 اَلنَّقْدُ - جاری کرنا۔ پھٹن۔ نکلنے کی جگہ۔
 جہ۔ اَنَقَادُ -
 اَلنَّاقِدُ - فا۔ ہر کام کو کر گزرنے والا۔
 طَرِيقُ نَاقِدٌ - شاہراہ۔ اَمْرٌ نَاقِدٌ
 ایسا حکم جس کی فرمانبرداری کی جائے۔
 اَلنَّاقِدَةُ - مَوْنَتُ اَلنَّاقِدِ - کھڑکی۔
 روشندان۔ جہ۔ نَوَاقِدُ - نَوَاقِدُ
 وَمَنَاقِدُ الْإِنْسَانِ - انسان کے
 جسم کے سوراخ۔ جیسے منہ ناک وغیرہ۔
 اَلنَّقَادُ وَ اَلنَّقَوْدُ - ہر کام کو کر گزرنے والا۔
 ہر کام میں طاق۔
 اَلنَّقْدَةُ - مہرہ۔ جہ۔ نَقْدُ -
 اَلنَّقِيدُ - نافذ۔
 اَلنَّقْدُ - گزر گاہ۔ باہر نکلنے کا راستہ۔ جہ
 مَنَاقِدُ -
 اَلْمُنْتَقِدُ - کسی چیز کے نفوذ کرنے کی جگہ۔ جہ
 مَنَاقِدُ -
 اَلْمُنْتَقِدُ - کشادگی۔ گنجائش۔
 نَقَرَتْ (د) نَقَرًا وَ نَقَارًا وَ نَقَارًا
 - اَلدَّابَّةُ مِنْ كَذَا - جانور کا
 بدکنا۔ چکنا۔ صفت نَاقِرٌ وَ نَقَوْرٌ -
 نَقَرَتْ (د) نَقَرًا - مِنْ كَذَا - نفرت کرنا۔
 ناپسند کرنا۔ عَنْ كَذَا - اعراض کرنا۔



النَّفِيرُ وَالنَّفِيرَةُ - کھن جو ٹکلی میں اکٹھا نہ ہو سکے۔

النَّفِيرُ - مین الطیبارہ بہت چھلانگیں مارنے والا بہرن۔

نَفْسُ (س) نَفْسًا وَنَفْسِيَّةً -

بالشیء - بخل کرنا۔ علی فلان
بمخیر - حسد کرنا۔ (نَفَاسَةً) (الشیء)
علی فلان - نا اہل سمجھنا۔

نَفْسُهُ (ن) نَفْسًا - بِنَفْسِ (ای
یعین) نظر بد لگانا۔

نَفْسَتُ (س) وَلَفْسَتُ وَنَفَسًا وَ

نَفَاسَةً وَنَفَاسًا - السَّرَاةُ

غُلَامًا - عورت کا بچہ جتنا۔ نَفَسُ

فلان - پیدا ہونا۔ مَفْعَتُ (مَنْفُوسُ)

نَفْسُ (ك) نَفَاسَةً وَنَفَاسًا وَ

نُفُوسًا وَنَفَسًا - نفیس اور پسندیدہ

ہونا۔

نَفَسٌ تَنْفِيَسًا - عَنهُ اِكْرِيَةً - غم

سے دور کرنا۔ تَلِي دینا۔ نَفَسٌ

فلان - کسی کو ملت دینا یا اس کے

غم کو زائل کر دینا۔ نَفَسُهُ فِي الْأَمْرِ

ترغیب دینا۔

نَافَسٌ نَفَاسًا وَمُتَافَسَةً - فَلَانًا

فِي الْأَمْرِ - باہم فخر کرنا۔ مقابلہ کرنا۔

فِي الشَّيْءِ مِبَالِغًا - بيش قیمت کرنا۔

کرم میں مقابلہ کی رغبت کرنا۔

أَنْفَسُ - الشَّيْءُ - نفیس ہونا۔ الشَّيْءُ

فلان - پسند آنا۔ فَلَانًا فِي الشَّيْءِ

رغبت دلانا۔

تَنْفَسَ - سانس لینا۔ الصُّبْحُ - صبح

کا روشن ہونا۔ الْقَوْسُ - کمان کا پٹخنا

- اَنْفَسَ - ہنر کا پانی زیادہ ہونا۔

النَّهَامُ - دوپہر ہونا۔ الرَّجُلُ -

لمبی لمبی باتیں کرنا۔ الرَّجُلُ فِي الْإِنَاءِ

پانی کا ایک ہی سانس میں پینا۔

نَفِيرٌ - جیٹ۔ سرکش۔

النَّفَرُ - سارے لوگ۔ تین سے لے کر دس

تک کی جماعت۔ جم۔ اَنْفَاسُ -

تَلَاثَةٌ نَفِيرٌ اَوْ اَنْفَارٌ - تین آدمی۔

يَوْمُ النَّفَرِ - اَوِ النَّفَرِ اَوِ النَّفِيرِ

اَوِ السُّفُوسِ - ذی الحجہ کی بارہویں

تاریخ جبکہ حاجی منی سے واپس ہو کر

مکہ معظمہ کی طرف رُخ کرتے ہیں۔

النَّفَرَةُ - حکم۔ فیصلہ۔ د۔ اَلنَّفَرَةُ

نظر بد سے بچاؤ کے لیے بچوں کا

تعویذ۔

النَّفَاسُ - مہم۔ اَرْبَعٌ ہونا۔

النَّفَارَةُ - حکم۔ جو کچھ غالب مغلوب

سے لے۔

النَّافِرُ - فَا - غالب۔ جم۔ نَفَرُوْا نَفَرًا

النَّافِرَةُ - مَوْرَثُ النَّافِرِ - رشتہ وار۔

واقف لوگ۔

النَّفُورُ وَالْبَيْنُفُورُ وَالْمُسْتَنْفُورُ - بھاگنے

والا۔ بہت تیز بھاگنے والا۔

النَّفِيرُ - مہم۔ دس سے کم آدمیوں کا گروہ۔

رِطَالٌ كِي طَرَفٌ كَوَاجِبُ كَرْنَةُ دَالِے لُوكْ -

بگل۔ جم۔ اَنْفَارُ - وَالنَّفِيرُ الْعَامُ

عوام کا دشمن سے مقابلے کے لیے اٹھ

کھڑا ہونا۔

النَّفَارِيرُ - چڑیاں۔ وَاَحَدُ نَفُورٍ

الْمُسْتَنْفَرُ - مفع۔ ٹھرایا ہوا۔

الْمَنْفُوسُ - مفع۔ مغلوب

نَفَرٌ رَضٍ نَفَرًا اَوْ لُفُوزًا اَوْ نَفَرًا نًا -

الطَّبِي - بہرن کا ذوق بھرنہ۔

نَفَرَةُ - كُودَانَا - نَفَرَتِ السَّرَاةُ

وَلَدَهَا - عورت کا اپنے بچہ کو

اچھانا۔ لَفَزُوا اَنْفَرُ السَّهْمُ -

تیرکی سیدھ دیکھنے کے لیے اس کو

ناخن پر گھمانا۔

تَنَافَرُوا - باہم اچھلتا۔ کُودَا -

الْقَوْمُ - متفرق ہونا۔ نَفَرًا لِي الشَّيْءِ

جلدی کرنا۔ نَفُورًا (العَبِيْنُ

وَعَبِيْرَهَا) نَفَرًا كَا سُوْجَار - نَفَرًا

فَلَانًا - غالب آنا۔ نَفَرًا اَوْ نَفُورًا

الْحَاسِبُ مِنْ مِثْلِي - منی سے واپس

ہونا۔ نَفَرًا اَوْ نَفُورًا اَوْ نَفَرًا

وَنَفَرَانًا (الطَّبِي وَغَبِيْرُكَ -

بہرن کا بھاگنا۔ دور ہونا۔ نَفَرًا

وَنَفُورًا اَوْ كَفِيْرًا) الْقَوْمُ لِلْقِتَالِ

اَوِ الْأَمْرِ - جل دینا۔

نَفَرَةُ - بھاگنا۔ نَفَرَةُ عَلٰی فَلَانٍ -

کسی پر غالب ہونے کا فیصلہ دینا۔

نَفَرَةُ الشَّيْءِ وَ عَلٰی الشَّيْءِ وَ بِالْشَّيْءِ

غالب ہونا۔ نَفَرٌ عَنْ فَلَانٍ - بُرَا

لقب دینا۔

أَنْفَرَةُ - بھاگنا۔ اَنْفَرُ الْقَوْمُ - قوم

کے اونٹوں کا بھاگ جانا۔ اَلْقَوْمُ

فَلَانًا - مدد دینا۔ اَلْحَاكِمُ فَلَانًا عَلٰی

فُلَانٍ - غلبہ کا حکم دینا۔

تَافَرَةُ نَفَارًا وَمُتَافَرَةً - فیصلہ کے لیے

جانا۔ حسب و نسب میں فخر کرنا۔

تَنَافَرُ - الرَّجُلَانِ - آپس میں فیصلہ کے

لیے جانے۔ باہم فخر کرنا۔ الْقَوْمُ لِلْأَمْرِ

جل دینا۔

اِسْتَنْفَرُ - بھاگنا۔ اِسْتَنْفَرُ الْقَوْمُ -

قوم سے مدد چاہنا۔ قوم کو جنگ کے

لیے جمع کرنا۔ الطَّبِي - بہرن کا بھاگ

جانا۔ اِسْتَنْفَرُ فَلَانٌ بِتَوَلُّجٍ -

فلاں نے میرے کپڑے لے جا کر گم

کر دیے۔

النَّفَرُ - مہم۔ جمع النافِرُ -

النَّفَرُ وَالنَّفَرَةُ - جنگ جوڑوں کا گروہ۔

بھگڑوں کا گروہ۔ تین سے لے کر

دس تک جماعت۔ نَفَرَةُ الرَّجُلِ

آدمی کا خاندان۔ عَفَرُ - زَفَرُ - عَفَرُ

تَنَفَّسَ الصُّعْدَاءُ تَحْكُنُ بِأَغْمٍ سَے
لمبے لمبے سانس لینا۔
تَنَافَسَ - الْقَوْمُ فِي الْأَمْرِ - مبالغہ کرنا۔
بطور مقابلہ - عبت کرنا۔
النَّفْسُ - مِم - رُوح - خُون - بدن - هُوَ
عَظِيمُ النَّفْسِ - وہ بڑے جسم کا
ہے۔ نظر بد - شخص - نَفْسُ الشَّيْءِ -
عین شے - نَفْسُ الْأَمْرِ - حقیقت امر -
النَّفْسُ عَظِيمَتٌ، بَهِتٌ، عَزَتٌ - ارادہ -
رائے - عیب - سزا پانی - نفس سے اگر
روح مراد لیں تو وہ مؤنث ہوتا ہے۔
جیسے کہتے ہیں - خَرَجَتْ نَفْسُهُ -
اگر شخص مراد ہو تو مذکر ہوتا ہے۔
جیسے کہتے ہیں خَمْسَةُ عَشَرَ نَفْسًا -
جہ - اَلنَّفْسُ وَالنُّفُوسُ - فِي نَفْسِي
أَنْ أَفْعَلَ كَذَا - میرا ارادہ ہے کہ
میں ایسا کروں - فَلَنْ يُوْعَاوِسَ
نَفْسِيهِ دَيْشًا وَرُهْمًا - یعنی فلاں
اپنے معاملہ میں متردس ہے - اور اس کی
دورائیں ہیں - مگر کسی پر اس کو نبات
نہیں - خَرَجَتْ نَفْسُهُ وَجَاوَ
بِنَفْسِيهِ - وہ مر گیا۔
النَّفْسُ - مِم - جھونکا - سانس - وسعت
مہلت - کہتے ہیں - اَعْمَلُوا الْخَيْرَ
وَأَنْتُمْ فِي نَفْسِ الْبَقَاءِ - عمل
خیر کرو اس حال میں کہ تم کو زندگی میں
مہلت نصیب ہو - لَبِي كُنْتُ كَوُ
گھونٹ - جہ - اَنفَاسَ - کہتے ہیں
هَذَا شَرَابٌ ذُو نَفْسٍ - یہ سیٹھی
پسندیدہ شراب ہے - نَفْسُ
السَّاعَةِ - آخری زمانہ - نَفْسُ
الشَّاعِرِ وَالْمُؤَلِّفِ - شاعریا
مصنف کا اسلوب تحریر -
الْبِقَاسَ - مِم - زچگی - ولادت کے بعد
کا خون -

النَّفْسَةُ - مہلت -
النَّافِسُ - فَا - حاسد قیمتی - نظر بد والا جوئے
کا چوتھا یا پانچواں تیر -
النَّفِيسُ - بہت مال - شَيْءٌ نَفِيسٌ -
پسندیدہ عمدہ چیز - اس کے مقابلہ
میں خیس آتا ہے - رَجُلٌ نَفِيسٌ -
حاسد آدمی -
الْأَنْفَسُ - اسم تفضیل - زیادہ دور یا وسیع
زیادہ قیمتی و مہنگا -
النَّفَسَاءُ وَالنَّفَسَاءُ وَالنَّفَسَاءُ - زچہ -
شئی نَفَسًا وَان - جہ - نَفَاسٌ وَ
نَفْسٌ وَنَفْسٌ وَنَفْسٌ وَنَفَاسٌ وَ
نَوَافِسٌ وَنَفَسَاتٌ -
النَّفُوسُ - حاسدنگا ہیں -
الْمَنْفُوسُ - نڈا ایدہ بچہ -
الْمُتَنَفِّسُ - سانس کا راستہ -
نَفْسٌ (ن) نَفَسًا وَنَفْسٌ - اَلْقُطْنُ
او الصُّوفُ - روئی یا اون دھنا -
نَفْسٌ نَفُوشًا - القوم - قوم کا ارزانی
میں ہونا - فَلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ کھانے
کے لیے رُخ کرنا -
نَفَشْتُ (ض ن) وَنَفَشْتُ (س)،
نَفَشًا - اَلْإِبِلُ او الغنم - اونٹوں
یا بکریوں کا رات کو بغیر چرواہے کے
چرنا - صفت نَافِشَةٌ وَنَفَاشٌ
دَوَافِشٌ وَنَفَشٌ - اسم النَفَشِ -
اَنفَشَ - مویشی کورات کے وقت چرواہے
کے چرنے کے لیے چھوڑنا -
تَنَفَّشَ وَاتْتَفَشَ - پرندہ کا پردوں کو
جھاڑنا - بلی کا بال کھڑے کرنا - لکڑی
کا پھولنا -
التَّنَفُّسُ - دھنی ہوئی روئی - متفرق سامان
کلام و دعویٰ کی کثرت - بَقَرٌ وَ
عَدْنٌ نَفَشٌ وَ نَوَافِشٌ وَ
نَفَاشٌ - رات کو بغیر چرواہے کے

چرنے والے مویشی -
النَّفَاشُ - مغرور - پھولا ہوا - ایک قسم کا
بڑا میوہ -
الْمُنَفَّشُ وَ السُّتَنَفَشُ - پھولا ہوا اور
نرم - چپٹی ناک -
نَفَصَ رَضٍ نَفَصًا وَ اَنفَصَ - بَبُولِہ
پیشاب کرنا -
نَفَصَ وَ اَنفَصَ - بِالْكَلِمَةِ - جلدی
بولنا - اَنفَصَ فِي الضَّحْكِ - بہت
ہنسنا - الرَّجُلُ يَشْفَتِيهِ - ہونٹوں
سے اشارہ کرنا -
النَّفَصَةُ - خون کا فوارہ - جہ - نَفَصٌ -
النَّفَاصُ - بھیڑوں کی کثرت - پیشاب
کی بیماری - النَفِيسُ - بیٹھا پانی -
الْمِنْفَاصُ - بہت ہنسنے والا -
نَفَصٌ (ن) نَفَصًا - الثوب - کپڑا جھاڑنا
- الشَّجَرَةُ - درخت کو ہلاتا -
الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ - درخت سے
پتے گرنا - الْمَكَانُ - جگہ کی اچھی
طرح دیکھ بھال کرنا - نَفَضْتُهُ
الْحُلِّيَّ - بخار کا کپکپا دینا - نَفَضَ
الزَّمْعُ - کھیتی کا آخری خوشہ نکالنا -
نَفَضَتِ الْإِبِلُ - اونٹنی کا سارے
بچے جھننا - الْمَرْأَةُ - عورت کا
بہت اولاد والی ہونا - نَفَضَ الْقَوْمُ
تَوَشَّهَ يَامَالٍ سے خالی ہونا - نَفَضَ
الطَّرِيقَ - راستہ کو چوروں سے پاک
کرنا - الْقَوْمُ حَلَائِشُهُمْ - قوم
نے اپنے دودھ دینے والے جانوروں کا
سارا دودھ نکال لیا - نَفَضَ الثَّوْبَ
او الصُّبُعَ - رنگ کا ماند پڑنا -
الْكُرْمُ - انگور کی بیل میں خوشہ
نکلتا - فَلَانٌ - چاروں طرف
دیکھنا -
نَفَضَ (ن) نَفُوضًا - الْمَرْئِيضُ - بیمار کا



کرتے تھے۔
النَّقَاطَةُ - آبلہ۔
النَّفِيطُ وَالْمَنْفُوطُ - آبلوں والا، مونٹ
نَفِيطَةٌ وَمَنْفُوطَةٌ۔
نَفَعَهُ دَفْتُ، نَفَعًا - بیکذا - فائدہ دینا۔
أَنْفَعُ - الرَّجُلُ - کسی کا لالچیلوں کی
تجارت کرنا۔
إِنْتَفَعَ - بِهِ وَمِنْهُ - فائدہ اٹھانا۔
إِسْتَنْفَعَهُ - فائدہ طلب کرنا۔
النَّفْعُ - فائدہ - نفع۔
النَّفَاعُ وَالنَّفِيعَةُ - فائدہ، منفعت۔
النَّفْعَةُ - ایک بار کا فائدہ۔ ایک قسم کا
عصا جس کو زمین پر فائدہ کے لیے
مارتے ہیں۔ ج۔ نَفَعَاتُ۔
النَّفْعَةُ - چمڑے کا تسم جو توشہ دان کے
پہلوں پر لگا ہوتا ہے۔
النَّفَاعَةُ - ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا
جائے۔
النَّافِعُ - فَا - اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی
میں سے ایک اسم۔
النَّافِعَةُ - وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا
جائے۔
النَّفَاعُ - بہت فائدہ دینے والا۔
الْمَنْفَعَةُ - ہر وہ چیز جس سے فائدہ
اٹھایا جائے۔ فائدہ۔ ج۔ مَنَافِعُ۔
مَنَافِعُ الدَّارِ - گھر میں آرام کی چیزیں۔
نَفَقْتُ (رَن) نَفَقًا وَنُفُوقًا - وَ
نَفَقْتُ (رَس) نَفَقًا وَتَنَفَقْتُ
يَدُهُ - ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔
نَفَقْتُ (رَن) نَفَقًا وَنَفَقْتُ (رَس) نَفَقًا
- الشَّيْءُ ختم ہونا۔ کم ہونا۔ نَفَقْتُ
الْبَيْعُ - بیع کا رائج ہونا۔ نَفَقْتُ
السُّوقُ - گرم بازاری ہونا۔
نَفَقْتُ (رَن) نُفُوقًا - اِدْجُلُ اَوَالِدَ آتِيَةٍ
مرنا۔ اَلْجُرْمُ - زخم کا چھلنا۔

الْأَنَافِيسُ - درخت کے نیچے گرے ہوئے
پھل۔ مفرد۔ اُنْفُوضَةٌ۔
الْمِنْفَضُ - چھاج۔ سوپ۔ پنکھا۔
الْمِنْفَاضُ - چادر وغیرہ جس پر
پتے یا میوے بھاڑے جائیں۔
الْمِنْفَعُ - مِنَ الدُّجَاحِ - اندوں
سے رُک جانے والی مرغی۔
الْمَنْفُوضُ - منفر۔ رزہ والے تپ میں
بتلا۔
نَفِطْتُ (رَس) نَفَطًا وَنَفِطًا وَنَفِيطًا
- يَدُهُ - ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔
نَفِطْتُ (رَس) نَفَطًا - غصہ سے آگ بگولا
ہونا۔
نَفِطْتُ (رَس) نَفَطًا وَنَفِيطًا -
الْعَمْرُؤُ - بکری کا چھینکا۔ اَلْقَدْرُ
ہانڈی کا جوش مارنا۔ نَفِطُ الطَّبْنِيِّ
ہرن کا آواز نکالنا۔ الرَّجُلُ - کسی کا
غیر مفہوم کلام کرنا۔
تَنَاقُطْتُ - اَلْقَدْرُ - ہانڈی کا جھاگ
پھینکنا۔
النَّفَطُ وَالنَّفِطُ - بہت جلد آگ پکڑنے
والا ایک معدنی تیل۔
النَّفِطَةُ وَالنَّفِطَةُ وَالنَّفِطَةُ -
چھپک۔ ۲۔ بلہ جو کام کرنے سے ہاتھ
پر ہو جاتا ہے۔
النَّفِطَةُ - جلد غضبناک ہونے والا۔
النَّافِطَةُ - بکری۔ يَدُ نَافِطَةٍ - آبلہ دار
ہاتھ۔ رُغْوَةٌ نَافِطَةٌ - بلبہ والے
جھاگ۔
النَّفَاطُ - کان سے نفط نکالنے والا۔
نفط پھینکنے والا۔ ج۔ نَفَاطَةٌ وَ
كَفَاطُونَ۔
النَّفَاطَةُ وَالنَّفَاطَةُ - نفط کی کان۔
پٹرول کانواں۔ ایک قسم کا چراغ۔
تانبے کا آلہ جس سے نفط پھینکا

متدرست ہونا۔
أَنْفَضَ - الْقَوْمُ - قوم کا ختم شدہ یا تباہ
شدہ مال والا ہونا۔ اَلْقَوْمُ زَادَهُمْ
قوم کا توشہ کو ختم کر دینا۔ اَنْفَضَ عَنْ
دور کرنا۔
إِنْتَفَضَ - درخت کا ہلنا۔ کپڑے کا
جھڑنا۔ اَلْكَوْرُ - سرسبز ہونا۔ آدمی کا
کانپنا۔
تَنْفَضَ وَاسْتَنْفَضَ - الْمَسْكَنُ -
جگہ کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔
الشَّيْءُ - نکلنا۔ اَلْأَمِيرُ - امیر کا
جاسوس بھیجنا۔
النَّفَضُ وَالنَّفَاضُ وَالنَّفَاضُ - وَ
النَّفَاضَةُ - جھاڑے ہوئے سے
گری ہوئی چیز۔ النَّفَاضَةُ - توشہ
کا بقیہ جو جھاڑا جائے۔ اَلنَّفَضُ
گرے ہوئے پتے یا کھجور۔
النَّفَاضُ - اَنْفَضَ الْقَوْمُ زَادَهُمْ
سے اسم۔ اَلنَّفَاضُ - بچوں کی تہ بند۔
ج۔ نَفَضٌ - مَا عَلَيْهِ نَفَاضٌ
اس پر کوئی کپڑا نہیں۔
النَّفِضَةُ وَالنَّفِضَةُ وَالنَّفَاضُ وَ
النَّفِضَاءُ - بخار کا رزہ۔ اَلنَّفِضَةُ
کیس کہیں پڑنے والی بارش۔
النَّفِضَةُ - جاسوسوں کی جماعت۔
النَّفِضِيُّ وَالنَّفِضِيُّ وَالنَّفِضِيُّ - کپکپی۔
النَّافِضُ - فَا - رزہ کا بخار۔ وہ کپڑا جس کا
رنگ ماند پڑ جائے۔
اَلنَّفُوضُ - مِنَ الْبَيْسَاءِ - بہت اولاد
والی عورت۔
النَّفِضَةُ - جاسوسوں کا گروہ۔ ج۔
نَفَاضٌ - اَلنَّفَاضُ - کنکروں
کے ساتھ غیب کی باتیں بتلانے والے
دُبُلے اونٹ۔
إِلَى نَفَاضٍ - مہو۔ بھوک۔ حاجت۔



نَفَقَ (ن) وَنَفَقَ (س) نَفَقًا -
الْيَرْبُوعُ: جنگلی چوہے کا اپنے سوراخ
سے نکلنا - اپنے سوراخ میں داخل

ہونا (ہند)
نَاقُ مَنَاقِفَهُ وَنِاقًا - فِي دِينِهِ
دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر
کرنا - صفت مُنَافِقٍ -

نَفَقَ - البَصَاعَةُ - سامان کو رواج
دینا -

أَنَفَقَ - محتاج ہونا - نوشہ ختم ہونا -

النَّال - مال صرف کرنا - خرچ کرنا -
السِّلْعَةُ - سامان کو رواج دینا -
القَوْمُ - قوم کی تجارت خوب چلی -

نَنَفَقَ - الْيَرْبُوعُ - جنگلی چوہے کو
سوراخ سے باہر نکالنا - الْيَرْبُوعُ
جنگلی چوہے کا سوراخ سے باہر نکلنا -

سوراخ میں داخل ہونا -

أَنَفَقَ - الرَّجُلُ - مرنگ میں داخل ہونا -

أَسْتَفَقَ - النَّال - مال ختم کرنا -

النَّفَقُ - مرنگ - ج - أَنَفَاقَ -

النَّفَقُ - جلد منقطع ہونے والا -

النَّفَاقُ وَالنَّفَاقَةُ - منافقت

النَّفَقَةُ - خرچ - ج - نَفَقَاتٍ وَنِفَاقٍ

وَأَنَفَاقَ -

النَّافِقُ - فَا - کہنے کے قابل سامان - چلنے

والی منڈی -

النَّافِقَةُ - مشک کا نافہ -

النَّفَاقَةُ - ج - نَوَافِقُ وَالنَّفَقَةُ وَ

النَّفَقَاءُ - جنگلی چوہے کا سوراخ -

نَيْفَقُ السَّرَاوِيلِ - پانچامہ کا نیفہ -

النَّفَاقُ - بہت خرچ کرنے والا -

النَّفَاقُ - دل میں کفر چھپا کر زبان سے
ایمان ظاہر کرنے والا -

نَفَلَ (ن) نَفْلًا - قسم کھانا - الرَّجُلُ -
عطیہ دینا - نَفْلَهُ النِّفْلُ - زائد عطیہ

دینا - نَفَلَ النِّفْلَ الْجُنْدَ -
غنیمت بانٹنا - الرَّجُلُ عَنْ
نَيْسِيَّةَ -

نَفْلَهُ - قسم کھانا - حصہ سے زائد دینا -

نَفَلَ عَنْ فُلَانٍ - ہٹانا -

أَنَفَلَهُ - النِّفْلُ - غنیمت دینا - أُنْفَلَ

لَهُ - قسم کھانا -

تَنَفَّلَ - نفل نماز ادا کرنا - عَلَى

أَحْصَاءِهِ - مال غنیمت اپنے ساتھیوں

سے زیادہ لینا -

أَنَفَلَ - نفیس پڑھنا - الشَّيْءُ مِنْ

فُلَانٍ - طلب کرنا - مِنْ الْأَمْرِ

أَدَاكَ لَمْ - بری ہونا - بیزار ہونا -

مِنْ الْقَوْمِ - قوم کی مدد سے دور رہنا -

النِّفْلُ - واجبات اور ضروریات سے

زائد کام -

النِّفْلُ - مال غنیمت - بہت بخشش زیادتی

ج - نِفَالٌ وَأَنَفَالٌ - ایک قسم کی

خوشبودار گھاس - واحد نَفْلَةٌ -

النَّافِلَةُ - غنیمت عطیہ بخشش - فرض

سے علاوہ زائد بات - پوتا - ج -

نَوَافِلُ -

النِّفْلُ - قمری ماہ کی چوتھی اور پانچویں اور

چھٹی راتیں -

النَّوْفَلُ - بہت فیاض - خوبصورت -

نَوْجَانٌ - ج - نَوْفَلُونَ - النَّوْفَلُ

سمندر، عطیہ - نَرْجَبُو -

النَّوْفَلَةُ - نمک دانی -

النَّفَنَفَ - ہوا - آسمان زمین کے درمیان

کا خلا - دیوار کی چوٹی سے نیچے تک

کا حصہ - پہاڑ کا سیدھا پہلو -

کنویں کے کنارے سے تر تک کا

حصہ - بیابان - ج - نَفَائِقُ - الدَّارُ

گھر کے نواحی و اطراف (والنَّفَنَفَانِ)

دو پہاڑوں کے درمیان کا خلا - دور -

نَفَقَهُ (ن) نَفَقُهَا - الرَّجُلُ - کمزور
دل ہونا - بزدل ہونا - الرَّجُلُ -

اونٹ کا رام ہونا -

نَفَقَتْ (س) نَفَقًا - نَفْسُهُ - تھکنا -

نَفَقَهُ وَ أَلْفَهُ - النِّفَاقَةُ - اونٹنی کو

تھکانا -

أَسْتَفَقَ - الرَّجُلُ - آرام لینا -

النَّافِقَةُ - تھکا ہوا - ج - نَفَقَهُ - د -

النَّفَقَةُ (ن) کمزور دل - بزدل -

نَفَقَهُ يَنْفِقُهُ نَفَقًا وَ كَفَى يَنْفِي نَفِيًا

وَ كَفَى - عَنْ - ہٹانا - انکار کرنا -

قَبِيضَانِ مِمَّنْ يَدْرِكُنَا - نَفَى الرَّجُلُ

مِنْ بَلَدٍ - شہر بدر کرنا - السَّبِيلُ

النَّعْثَاءُ - سیلاب کا کورا کرکٹ ہما

لَانَا - السَّحَابَةُ السَّمَاءِ - بادل

کا پانی برسانا -

نَفَى يَنْفِي نَفِيًا وَ أُنْفَى - عَنْهُ - دور

ہونا - الشَّعْرُ - بال گرنا - أُنْفَى

مِنْ وَلَدٍ - بچہ سے انکار کرنا -

أُنْفَى فُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ - کراہیت

کے ساتھ اعراض کرنا - نَفَاةً قَا نُنْفَى

اس نے اس کو ہٹایا - پس وہ ہٹ گیا -

نَفَى يَنْفِي نَفِيًا وَ نَفِيًا - الصَّيْرُ

فِي الدَّاهِيَةِ - صراف کا روپے

پر کہنے کے لیے ان کو بکھیرنا -

نَافَاةً مِّنَافَاةً - ایک دوسرے کو ہٹانا -

تَنَافَى تَنَافِيًا - الْوَجَالُ - ایک

دوسرے کو دفع کرنا - ایک دوسرے

کے مخالف ہونا -

نَفَاءُ الشَّيْءِ وَ نَفَائَتُهُ وَ نَفَيْتُهُ وَ

نَهَيْتُهُ وَ نَفَائَتُهُ وَ نَفَائِيَّتُهُ وَ

نَفِيَّتُهُ - چیز کا وہ ردی حصہ جو دور

کر دیا جائے - چیز کا بقیہ -

النَّفِيَّةُ - بکجور کے پتوں کا کستر خوان جس پر

گوشت یا پنیر وغیرہ خشک کیا جائے -



جہ - نَفِیَّات

النَّفِیَّان - مص - درختوں کی جڑوں میں ہواسے
جمع شدہ مٹی - بڑی فوج کے پیچھے
آنے والے لوگ -

النَّاقِی - فا - دھتکارا ہوا - دور کیا ہوا -

النَّقِی - نابود کیا ہوا - ٹانڈی کے ادھر
ادھر پھینکے ہوئے جھاگ - چکی کا پھینکا
ہوا آٹا - گھوڑوں کے سموں سے بکھرے
ہوئے مٹی پتھر وغیرہ - درختوں کی جڑوں
میں ہواسے جمع ہونے والی مٹی - لشکر
کا بڑا حصہ جو ایک طرف کو ہوجائے -
کھجور کے پتوں سے بنائی ہوئی ڈھال -
ابن نفی - وہ لڑکا جس کے بیٹا ہونے
سے باپ انکار کرے -

الْمَنْفِی - دور کیا ہوا - ہٹا یا ہوا - پھینکا
ہوا - جلا وطن کیا ہوا - دھتکارا ہوا -
فی الکلام - اثبات کے خلاف -
الْمَنْفِی - جلا وطن کی جگہ - جہ - مَنَاقِب -
نقی (رض) - نَقِیْقَا - الضَّفْعُ - سینڈک
کا ٹرانا - مرغی - چکور - بچھو - ہشتر مرغ
وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل
ہوتا ہے -

نَقَّتْ - صَفَادِعْ بَطْنِیہ - وہ بھوکا
ہو گیا -

النَّقَاقُ - سینڈک -

النَّقَاقَةُ - سینڈکی -

النَّقُوقُ - چلانے والا - جہ - نَقُوقٌ وَنُقُ -

نَقَب (رن) - نَقَبًا - الحَاطِطُ - دیوار میں

سوراخ کرنا - الحُفَّ - موزے میں

پیوند لگانا - فَلَانٌ فِی الْاَرْضِ - جانا -

- عَنِ الْاَحْبَارِ - خبروں کی تحقیق کرنا

یا خبر دینا - انْثَبَ - بغیر نیتہ کے

پانچا مہ بنانا - الفوس - دوڑنے میں

گھوڑے کا ٹانگیں جوڑنا -

نَقَبَ دس نَقَبًا - الحُفَّ الْمَلْبُوسُ -

پہنے ہوئے موزے کا چھٹا ہوا ہونا -
الْبَعِیْرُ - اونٹ کا گھسے ہوئے کھڑوالا
ہونا - الرَّجُلُ - پہاڑی راستوں
میں چلنا - فِی الْبِلَادِ - ملک میں
جانا -

نَقَبَ (رن) - نَقَابَةً وَنَقَبَ (رس)
نَقَبًا وَنَقَبَ (رن) - نَقَابَةً - عَلَی
القوم - قوم کا سردار ہونا -

نَقَبَ - فِی الْاَرْضِ - بھاگتے ہوئے ملک
میں جانا - عَنِ الشَّیْءِ - بات کی کرید
و تحقیق کرنا -

نَقَبَهُ نَقَابًا وَمُنَاقَبَةً - مناقب میں
فخر کرنا - نَقَبَهُ نَقَابًا - اچانک
ملنا - قَرَدْتُ الْمَاءَ نَقَابًا - میں

پانی پر بغیر تلاش کے اچانک پہنچ گیا -

أَنْقَبَ - فِی الْاَرْضِ - ملک میں جانا -

- الْبَعِیْرُ - اونٹ کے گھسے ہوئے

کھڑوالا ہونا - الرَّجُلُ - سردار

فن ہونا -

تَنْقَبَ - عَنِ الشَّیْءِ - بہت کرید و تحقیق

کرنا - تَنْقَبْتُ وَآتَنْقَبْتُ -

السَّرَاةُ - نقاب باندھنا -

النَّقَب - مص - سوراخ - پہلو کا زخم -

وَالنَّقَبُ - پہاڑی راستہ - جہ -

نِقَابٌ وَانْقَابٌ - نَقَبُ الْعَیْنِ -

موتیا بند کے پانی کا علاج -

النَّقَبُ وَالنَّقَبُ وَالنَّقَبُ - کھجلی -

النَّقَبَةُ - منہ ڈھلکنے کی طرز - عَلَیْهِ

نَقَبَةٌ - اس پر نشان ہے -

النَّقِیَّةُ - کھجلی کا شروع - رنگ - رنگ -

چہرہ - سوراخ - عورتوں کے پسنے کی

داسکٹ - جہ - نَقَبَ -

الْاَنْقَابُ - کان -

النِقَابُ - مص - بڑا عالم - عورت کا منہ

ڈھلکنے کا پردہ - پہاڑی سڑک -

پیٹ - شل ہے - قَوْضَانٌ فِی نِقَابٍ
یعنی دو شخص ایک دوسرے کے ساتھ
شکل و شباحت میں مشابہ ہیں - جہ
نَقَبَ - نَقَبْتُهُ نَقَابًا - میں اس
سے رُودرو یا بغیر عدسے کے ملا -

النَّاقِبَ - فا - سوراخ کرنے والا - نقب

لگانے والا - پہلو کا ناسور -

النَّقَابُ - کاموں میں گھس جانے والا - کامل

کو بہت دریافت کرنے والا -

النَّقِیْبُ - قوم کا سردار یا منبردار - قوم کا

گواہ - قوم کا ضامن -

نَقِیْبُ الْأَشْرَافِ - لوگوں کے حالات

کی تفتیش کرنے والا - جہ - نَقَبَاءُ -

النَّقِیْبُ - بانسری - ترازو کی زبان -

النَّقِیْبَةُ - روح - دل - فطرت - مزاج - عقل -

مشورہ - رائے کا نفاذ - مَقِیْمُونَ

النَّقِیْبَةُ - مبارک خیال والا -

الْمَنْقَبُ - جانور کے پیٹ میں سوراخ

کرنے کی جگہ -

الْمَنْقَبُ - پہاڑی راستہ - جہ - مَنَاقِبُ -

الْمَنْقَبُ - پہاڑی راستہ - بہت بحث و

تحقیق کرنے والا عالم - دَوِ الْمَنْقَبَةِ

نَشْرَ -

النَّقَبَةُ - پہاڑی راستہ - دو گھروں کے

درمیان کا تنگ راستہ - دیوار اچھا

کام - قابلیت - خوبی - جہ - مَنَاقِبُ -

مَنَاقِبُ الْاِنْسَانِ - انسان کے عمدہ

خصائل اور ستودہ اخلاق -

نَقَّتْ (رن) - نَقَّتَا - الْعَظْمُ - بڑی کا

گودا نکالنا - الشَّیْءُ الْمَذْفُونُ -

دبی ہوئی چیز کو کھود کر نکالنا - الرَّجُلُ

فِی السَّیْرِ - چلنے میں جلدی کرنا -

الْحَدِیْثُ - بات کو پیچیدہ کرنا -

فَلَانًا بِالْكَلَامِ - بات سے اپنا دینا -

- الْاَرْضُ رَبِیْدَةٌ - زمین کو کدال سے

ن

کھودتا۔ عین الشئ۔ کھود کرید کرنا۔
نَقَدْتُ - الرَّجُلُ - جلدی کرنا۔
تَنْقِشَةُ - ماہل کرنا۔ مہربان بنانا۔
تَنْقِصْتُ - ضیعہ۔ اپنی جائداد وغیرہ کی
دیکھ بھال کرنا۔ النَقْصَاتُ - بجو۔
النَّقْصُ - مہم۔ جھٹی۔
نَقْصَلُ نَقْصَلَةٍ - الشَّيْخُ - بوڑھے کا
چلنے میں مٹی اڑانا۔
نَقَمَ (ن) نَقْمًا وَنُقْمًا - الْعَظَمَ -
بڑی کا گودانگانا۔ الجَذْعُ - تنے
کی کانٹھیں کاٹ کر صاف کرنا۔
الشَّيْ - جھیلنا اور ردی کو خالص
سے جدا کرنا۔

نَقَمَ وَانْقَمَ - الْكَلَامُ - کام کی اصلاح
و درستی کرنا۔ نَقَحَتِ السَّنُونُ
الرَّجُلُ - سالوں کا انسان کو کمزور
کردینا۔ انْقَمَ الرَّجُلُ - تلوار کی
نریا بیلش اتارنا۔
تَنْقَمَ - شُحْمًا - چربی کم ہونا۔
انْتَقَمَ الْعَظَمَ - بڑی کا گودانگانا۔
النَّقْمُ - موسم گرما کا سفید بادل۔
النَّقْمُ - تجربہ کار عالم۔
النَّقْمُ - خالص ریت۔
التَّنْقِيصُ - معنی کی وضاحت کے ساتھ
الفاظ کا اختصار۔
نَقَحَهُ (ن) نَقْحًا - مارنا۔ دماغ
توڑنا۔ انْتَقَمَ - بڑی سے گودا
نکالنا۔

النَّقَاخُ - ٹھنڈا صاف پانی۔ نیند۔ عافیت
اسن۔ نَقَاخُ كُلِّ شَيْءٍ - خالص۔
نَقَدَ (ن) نَقْدًا وَتَنْقَادًا - الدَّرَاهِمَ -
دراہم پرکھنا۔ الْكَلَامُ - کلام کی خوبی
اور برائی ظاہر کرنا۔ نَقَدَ خُلَانًا وَ
يَفْلَانِ الثَّمَنَ - قیمت نقد ادا
کرنا۔ نَقَدَهُ دَرَهْمًا - دینا۔

الطَّائِرُ الْفَتَحَ أَوِ الْحَبَّ - پرندہ
کا چوڑھ مارنا۔ الرَّجُلُ الشَّيْ وَ
إِلَى الشَّيْ بِتَطَرُّجٍ - چپکے چپکے
دیکھنا یا کتنا۔ نَقَدَ تَهَ الْحَيَّةُ -
سانپ کا ڈسنا۔
نَقَدَ (ن) نَقْدًا - الْفَرَسُ أَوِ الْقَرُونُ
دانت یا سینگ کا ٹوٹنا یا کھایا ہوا
ہونا۔ صفت رَقِيقٌ - الحَافِرُ
کھر کا چھلنا۔ الْجَذْعُ - تنہ کا کھوکھلا
ہونا۔

النَّقْدُ الشَّجَرُ - درخت کا پتے لانا۔
نَاَقَدَهُ مُنَاَقَدَةً - کسی معاملے میں
جھگڑنا۔

تَنَاقَدَ - الدَّرَاهِمَ - دراہم پرکھنا۔
انْتَقَدَ - الدَّرَاهِمَ - روپے نقد
وصول کرنا۔ کھوٹے روپے الگ کرنا۔
- الشَّيْعَةُ عَلَى قَائِلِهِ - شعر کے
عیب ظاہر کرنا۔ الْأَرْضَةُ الْجَذْعُ -
دیرک کا تنہ کو کھوکھلا کر دینا۔ انْتَقَدَ
الْوَلَدُ - لڑکے کا جوان ہونا۔

النَّقْدُ - مہم۔ بروقت ادائیگی ہوئی قیمت۔
نقد روپیہ۔ جہ۔ نَقُودٌ -
النَّقْدَانُ - سونا چاندی۔
النَّقْدُ وَالنَّقْدُ - کم گوشت والا۔ دیر
سے جوان ہونے والا۔

النَّقْدُ - مہم۔ بھڑوں کی ایک قسم جن کی
ٹانگیں چھوٹی اور چہرے بٹکل ہوتے
ہیں۔ واحد نَقْدَةٌ - (مذکر مؤنث)
جہ۔ نَقْدًا وَنِقَادَةً -

النَّقْدُ - سنے لوگ۔ کینے۔ النَّقْدُ
مِنَ الصَّبِيَّانِ - دیر سے جوان
ہونے والا بچہ۔

النَّقْدُ - فاجہ۔ جہ۔ نَقْدَةٌ وَنَقَادٌ -
النَّقْدُ وَالْأَنْقَدُ - سیسی۔
الانْقِدَاوَالْانْقِدَانُ - کچھو۔

النَّقَادُ - روپے پرکھنے والا۔ تنقید کرنے
والا۔ ایک چھوٹی قسم کی بھڑوں کا
چروانا۔

مِنْقَادُ - الطَّائِرُ - پرندہ کی چوڑھ۔ جہ
مَنَاقِيدُ -

نَقَدَ (ن) نَقْدًا أَوْ نَقْدًا وَالنَّقْدُ -
خُلَانًا مِنْ كَذَا - نجات دلانا۔
خلاصی دلانا۔

تَنْقَذَهُ وَاسْتَنْقَذَهُ - مِنْ كَذَا نَجَاتٍ
دینا۔ چھڑانا۔

نَقَدَ (ن) نَقْدًا - نجات پانا۔
النَّقْدُ - سلامتی۔ نَقْدٌ لَكَ - تو محفوظ
رہے۔

النَّقْدُ وَالنَّقِيدُ - چھڑایا ہوا۔ بجایا
ہوا۔ مَا لَهُ شَقْدٌ وَلَا نَقْدٌ -
اس کے پاس کچھ نہیں۔

النَّقِيدَةُ - غنیمت کا گھوڑا یا زرہ وغیرہ۔
جہ۔ نَقَائِدُ - هُوَ نَقِيدَةُ بُؤْسٍ -
سختی سے بجایا ہوا۔

نَقَرَهُ (ن) نَقْرًا - مارنا۔ نَقَرَ الْعُودَ
أَوِ الدَّائِيَّ - بانسری یا ڈھول بجانا۔
- خُلَانًا - عیب لگانا۔ الشَّيْ - چوڑھ
سے سوراخ کرنا۔ الطَّائِرُ الْبَيْضَةُ

عَنِ الْمَفْرُخِ - پرندہ کا بچہ نکالنے
کے لیے اڈے میں سوراخ کرنا۔ نَقَرُ
فِي الْحَجَرِ - پتھر پر کھنا۔ فِي
النَّاقُوسِ - بگل بجانا۔ الطَّائِرُ

الْحَبَّتِ - پرندہ کا دانہ چلنا۔ الْحَجَرُ
أَوِ الْخَشَبِ - پتھر یا لکڑی کھودنا۔
نَقَرَ عَنِ الْأَمْرِ مَعَالِمَ كَيْفَانِ بَيْنَ

کرنے۔ نَقَرُ فُلَانٍ - چٹکی بجانا۔ زبان
کو تالو سے لگا کر آواز نکالنا۔ نَقَرْتُ
بِالرَّجْلِ - قوم میں سے علیحدہ ملانا۔

نَقَرَ السَّهْمَ الْمَهْدَفَ - تیر کا
نشانہ پر لگنا مگر پار نہ ہونا۔



نَقْرَس، نَقْرًا۔ عَلٰی فُلَانٍ۔ غضبناک ہونا۔ نَقَرَتِ الشَّاةُ۔ بکری کا نقرہ کی بیماری والا ہونا۔ نَقَرْدُ لَانٌ۔ کسی کا فقیر ہونا۔

نَقَر۔ الطَّائِرُ فِي الْمَوْصِلِ۔ پرندہ کا جگہ کو اُڑے دینے کے لیے نرم کرنا۔

فُلَانٌ يَأْسُمُ فُلَانٍ۔ کسی کو نام لے کر پکارنا۔ الشَّيْءُ وَعَنِ الشَّيْءِ۔ چھان بین کرنا۔ عَلٰی فُلَانٍ۔ کسی پر کتنے چینی اور عیب گیری کرنا۔

نَاوَرَةٌ مِّنَّا قَرَّةٌ وَيَقَارًا۔ بات چیت میں جھگڑانا۔ مَخْلُوفَةٌ۔ غنیمت کرنا۔

أَنْقَرَعَ عَيْنٌ۔ رُکنا۔ فَكْرَبَهُ فَمَا أَنْقَرَعَ عَنْهُ حَتَّى قَتَلَهُ۔ وہ اس کو مارنے سے نہ رُکا۔ یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔

تَنْقَرُ۔ الشَّيْءُ۔ چھان بین کرنا۔ عَلٰی الْاَهْلِ اَوَالْمَالِ۔ بددعا کرنا۔

أَنْتَقَرَهُ۔ پسند کرنا۔ اِنْتَقَرُ الشَّيْءُ۔ چھان بین کرنا۔ اِنْتَقَرَهُ وَانْتَقَرَبَهُ۔ قوم میں سے کسی کو علیحدہ بلانا۔ الْقَوْمُ وَبِالْقَوْمِ۔ خاص خاص لوگوں کو بلانا۔

اِنْتَقَرَتِ الْخَيْلُ بِحَوَافِرِهَا۔ نَقْرًا۔ کھوں سے کھودنا۔ اِنْتَقَرَتِ السَّيْلُ نَقْرًا۔ سیلاب کا گرہ ڈالنا۔ اِنْتَقَرُ الشَّيْءُ۔ کھنا۔

النَّاقِرُ۔ فَا۔ نشانہ پر لگنے والا نیزہ۔ جہ۔ نَوَاقِرُ۔

النَّاقِرَةُ۔ النَّاوِرُ کا مؤنث۔ مصیبت۔ ٹھیک دلیل۔ جہ۔ نَوَاقِرُ۔ اَتَتْنِي عَنْهُ نَوَاقِرُ۔ اس کی طرف سے مجھ کو

اِندراساں باتیں پیچیں۔ النَّاقُوسُ۔ بگل۔ دل۔ جہ۔ نَوَاقِرُ۔ اِنْتَقَرَةُ۔ جو بچ بھر پتھر لگنے سے جو

باقی ہے۔

النَّقَرُ۔ مِم۔ چٹکی کی آواز۔ پتھر کی کھائی۔ النَّقَرُ۔ کھجور کی گٹھلی کا چھوٹا سا گڑھا۔

النَّقَرُ۔ ناراض۔ النَّقَرُ۔ کتنے ہیں۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ

النَّقَرِ وَالنَّقَرِ۔ میں اللہ کے ذریعہ بچے ہوں اور مال کے ضائع ہونے سے

پناہ مانگتا ہوں۔ النَّقَرِيُّ۔ عیب۔ بَنَاتُ النَّقَرِيِّ۔ ذلیل عورتیں۔ دَعَوْتُهُمْ نَقَرِي۔ میں

نے ان کو خصوصیت سے بلایا۔ النَّقَرَةُ۔ نَقْرُ کا اسم مرہ۔ مَا اَتَانَا بِهِ نَقَرَةٌ۔ اس نے اس کو کچھ بھی بدلہ

نہیں دیا۔ اِنْقَرَعَتْ۔ باتوں میں رد و کد اور جھگڑا۔ اِنْقَرَعَتْ۔ زمین میں چھوٹا سا گول گڑھا۔

جاندی سونے کا پگھلا ہوا ٹکڑا۔ آنکھ کا گڑھا۔ سَرِن کا گڑھا۔ گردن کے پچھلے حصہ کا گڑھا۔ جہ۔ نَقْرُ وَ

نِقَاسٌ۔ اِنْقَرَعَتْ۔ بکریوں اور گایوں کی ٹانگوں میں پیدا ہونے والی بیماری۔

النَّقَارُ۔ امورا اور خبروں کی چھان بین کرنے والا۔ لکڑی یا پتھر پر کھودنے والا۔

لگام یا رکاب پر نقش و نگار کرنے والا۔ اس پیشہ کو نِقَارَةُ کہتے ہیں۔

النَّقَارُ۔ جو بچ مارنے والا پرندہ۔ اِنْقَارَةُ۔ بڑا ڈھول۔

النَّقِيرُ۔ آواز۔ کھجور کی گٹھلی کا گڑھا۔ کھجور کا تنہ جس کو کھوکھلا کر کے

سیڑھیاں یا کٹھن بنا تے ہیں۔ لکڑی کی بڑ جس کو کھود کر اس میں نیبڈ

بناتے ہیں۔ بہت غریب۔ ایک سیاہ رنگ کی مکھی۔ جہ۔ اَنْقَرَةُ۔

النَّقِيرَةُ۔ چھوٹی کشتی۔ اْلانْقُورُ۔ کھجور کی گٹھلی کا گڑھا۔

النَّقِيرُ۔ سسٹی کے مشابہ آواز۔ اْلانْقَرُ۔ کدال۔ چینی۔ جہ۔ مَنَاقِرُ۔

اْلانْقَرُ وَالْمِنْقَرُ۔ لکڑی کا پیالہ۔ جہ۔ مَنَاقِرُ۔ تنگ منہ کا چھوٹا کنواں۔

بہت پانی والا گہرا کنواں۔ حوض۔ اْلانْقَرُ۔ بہت ترش دودھ۔

اْلانْقَارُ۔ کدال۔ چوہ۔ چرمی موزے کی ٹوک۔ مَنَاقِرُ الدَّجَاجَةِ دَمِنَقَارُ

الْعُذَابِ۔ دوستارے۔ نَقْرَدَ نَقْرَدَةً۔ فِي الْمَكَانِ۔ کسی جگہ اقامت کرنا۔

اْلانْقِرُسُ۔ نقرس کی بیماری۔ ہلاکت۔ بڑی مصیبت۔ ماہر راہنما۔ طبیب

حاذق۔ گلاب کے پھول جیسی چیز۔ جس کو عورتیں سر میں رکھتی ہیں۔ جہ۔ نَقَارِسُ۔

اْلانْقَرُوسُ۔ ماہر راہنما۔ ماہر و ہوشیار طبیب۔

نَقَرُ رَضْنٍ۔ نَقَرٌ اَوْ نَقْرَانًا وَنَقَارًا۔ اَلنَّطْلِيُّ۔ ہرن کا کودنا۔ چھلانگ

مارنا۔ صفت (نَاقِرٌ) نَقْرَةً عَنْهُمْ دفع کرنا۔ بٹھانا۔

نَقَرَتِ۔ اَلصَّبِيُّ اُصْلًا۔ ماں کا بچہ کو اچھالنا۔ نَقَرٌ ذُرَاؤًا۔ کودنا۔

اَلنَّقَرُ۔ الرَّجُلُ۔ ہمیشہ صاف اور میٹھا پانی پینا۔ ردی مال حاصل کرنا۔ نَقَارُ

بیماری والے مویشی والا ہونا۔ فوراً قتل کر دینا۔ عَنِ الشَّيْءِ۔ رُکنا۔

باز رہنا۔ اِنْتَقَرَتْ۔ اَلشَّاةُ۔ بکری کا نفاذ کی بیماری والا ہونا۔

اِنْتَقَرُ۔ يَفْلُؤِنَ مِنْ۔ ردی مال دینا۔ اَلنَّاقِرَةُ۔ مَوْنَتُ النَّاقِرِ۔ نَوَاقِرُ

الدَّائِقَةُ۔ چوپایوں کی ٹانگیں۔ اَلنَّقَاسُ۔ طاعون کی طرح جانوروں کی ایک



بیماری ۔
 النُقُورُ خمیس ماں۔ گھٹیا لوگ ۔
 النُقُورُ کنواں ۔
 النُقُورُ لقب ۔
 النُقُورُ لقب ۔ گھٹیا ماں ۔ ردیل طبقہ کے
 لوگ ۔ واحد نُقْرَةٌ ۔
 النُقُورُ صاف میٹھا پانی ۔
 النُقُورُ والنُقُورُ ۔ ایک قسم کا پرندہ
 چڑیوں کے بچے ۔ جہ ۔ نَقَارِیضُ ۔
 المُنْقُورُ ۔ نقارک بیماری والا ۔ مُنْث
 المُنْقُورَةُ ۔
 نَقَسٌ دَن، نَقَسًا ۔ الناقوس بالخشبة
 نکڑی سے ناقوس بجانا ۔ الناقوس
 ناقوس بجانا ۔
 نَقَسٌ دَن نَقُوسًا ۔ الشراب ۔ ترش
 ہونا ۔ بَيْنَ الْقُورِمِ ۔ فساد و الننا ۔
 نَقَسَهُ دَس نَقَسًا ۔ عیب لگانا ۔ سحری
 کرنا ۔
 نَقَسٌ فَلَانًا ۔ لقب دینا ۔ الدَّاقَةُ ۔
 دوات میں روشنائی ڈالنا ۔ نَقَسَهُمْ ۔
 يَنَاقُوسُ ۔ ناقوس بجا کر لوگوں کو
 بلانا ۔
 نَاقَسَهُ ۔ عیب لگانا ۔
 لَنَقَسَ ۔ ناقوس بجانا ۔
 الناقوس ۔ فا ۔ ترش ۔ کھٹا ۔
 النَقَسُ ۔ کھلی ۔ ایک قسم کا ناقوس ۔ جہ ۔
 نَقَسٌ رَجُلٌ نَقَسٌ ۔ عیب گیر ۔
 لوگوں کے لقب رکھنے والا ۔
 النَقَسُ ۔ روشنائی ۔ جہ ۔ اَنَقَسَ و
 اَنَقَسَ ۔
 الاَنَقَسُ ۔ کنیز زادہ ۔ کھلی والا ۔
 النَقُوسُ ۔ ایک قسم کی نباتات ۔
 الناقوس ۔ لہجہ کا ٹکڑا جو نکڑی سے بجایا
 جائے ۔ گھڑیاں ۔ جہ ۔ نَوَاقِسُ ۔
 نَقَسٌ دَن، نَقَسًا ۔ اشیئ بیل بوٹے

۱۱. انشا. نقش و نگار کرنا۔ العَدَقُ
 کھجور کے خوشہ کو پکانے کے لیے
 کانٹوں سے مارتا۔ الشُّوْكَةُ مِصْنُ
 رَجُلِهِ۔ پاؤں سے کانٹا نکانا۔
 مَرْبُصٌ الْغَنَمَ۔ بکریوں کے باڑے
 کو کانٹوں وغیرہ سے صاف کرنا۔
 عَنِ الشَّيْءِ۔ ہت و صاحت کرنا۔
 فَصَّ الْحَاتِحَ۔ انگوٹھی کا نگینہ کھودنا
 ۔ الشُّعْرَ بِالْمِنْقَاشِ۔ موچنے سے
 بال لوچنا۔ الرَّحْمَى۔ چکی ٹانچنا۔
 مَا نَقَشَ مِنْهُ شَيْئًا۔ اس نے
 اس سے کچھ نہیں پایا۔
 نَقَشَ الشَّيْءَ۔ نقش و نگار کرنا۔
 نَاقِشُهُ۔ الْحِسَابِ وَفِي الْحِسَابِ۔
 حساب کی تفصیل سمجھنے سے لینا۔
 أَنْقَشَ۔ عَلَى عَرِيْمِهِ۔ مقرض کو تنگ
 کرنا۔
 تَنْقَشَ۔ کسی سے اپنا پورا حق لے لینا۔
 اِنْتَقَشَ۔ الشُّوْكَةَ۔ کانٹا نکانا۔
 الشَّيْءَ۔ نکانا۔ مِنْ زَيْدٍ جَمِيعَ
 حَقِّهِ۔ اپنا حق پورا لے لینا۔ اور
 کچھ نہ چھوڑنا۔
 اِنْتَقَشَ۔ فَلَاؤًا۔ کسی کو پسند کرنا۔
 اِنْتَقَشَ فَلَانٌ۔ نگینہ کھودنے کا حکم
 دینا۔ عَلَى فَصِّدٍ كَذَا۔ نگینہ پر
 کھدوانا۔
 الْيَنْقَاشَةُ۔ نقاشی کا پیشہ۔
 النَّقَشُ۔ زمین میں نشان۔ نقش و نگار۔
 ج۔ نَقُوشٌ۔ النَّقَشُ سوکھی کھجور
 جس کو خوشہ میں رکھ کر پانی میں تر
 کریں۔
 الْيَنْقَاشُ۔ نقش و نگار کرنے والا۔
 النَّقِيشُ۔ نظیر۔
 الْمِنْقَاشُ وَالْمِنْقَاشُ۔ نقش و نگار
 کرنے کا برش۔ پنسل۔ چینی۔ کانٹے

نکلنے کا اوزار۔ ج۔ مَنَاقِشُ و
مَنَاقِشُ۔ کہتے ہیں اِسْتَعْرِجْتُ
مِنْهُ وَحَرَقْتُ بِالْمَنَاقِشِ۔ میں نے
اس سے اپنا قرعہ وصل کرنے میں بہت
تکلیف اٹھائی۔
الْمَنْقُوشُ۔ منعم۔ دینار۔ کچی کھجور جس کو
پکانے کے لیے اس میں کانٹا چھوئیں
الشَّجَّةُ الْمَنْقُوشَةُ وَالْمَنْقُوشَةُ
زخم جس سے لڑیاں نکالی جائیں۔
نَقْصٌ (ن) نَقْصًا وَتَنْقِصًا وَنَقْصًا۔
الشیء۔ کم ہونا۔ گھٹنا۔
نَقَصْتُ الشَّيْءَ۔ میں نے چیز کو گھٹا دیا
نَقَصْتُ زَيْدًا حَقَّهُ۔ حق کم کر
دینا۔
نَقْصُ دِكْ نَقْصَةً۔ الماء۔ پانی کا
میٹھا ہونا۔
اِسْتَنْقَصَ۔ الشَّيْءَ۔ چیز کا گھٹنا۔ کم ہونا
الشیء۔ کم کرنا۔ الرَّجُلُ عَيْبٌ
گیری کرنا۔
تَنْقَصَ۔ فَلَانًا۔ کسی کی مذمت کرنا۔
عیب گوئی کرنا۔ الشَّيْءَ۔ آہستہ
آہستہ کم کرنا۔
تَنَاقَصَ۔ الشَّيْءَ۔ آہستہ آہستہ گھٹنا۔
اِسْتَنْقَصَ۔ الثَّمَنَ۔ قیمت گھٹانے
کے لیے کہنا۔ کم پانا۔ الرَّجُلُ
نقصان کی نسبت کرنا۔
النَّاقِصُ۔ فا۔ نامکمل۔ دُرٌّ هَمٌّ
نَاقِصٌ۔ کم وزن کا درہم۔ ج۔ نَقْصُ
النَّقْصِ۔ مہ۔ یعنی نقصان۔ ہر دو میں فرق
یہ ہے کہ نقصان دین و عقل میں
مستعمل نہیں۔ مثلاً کہہ سکتے ہیں۔
دخل عليه نقص في دينه
وعقله۔
النَّقْصَانُ۔ کمی۔ گھٹاؤ۔
النَّقِيبُ۔ میٹھا پانی۔ ہر عمدہ و خوشبودار ضر

النَّقِيضَةُ - کینہ خصلت - برائی - عیب
گیری - نکتہ چینی - بری - ج - نَقَائِصُ -
الْمُنْقَصَةُ - نقصان - ج - مَنَاقِصُ -

نَقَصَ رَنْ، نَقَصْنَا - اِیْنَاوْ - عمارت
ڈھانا - الْعَطْفُ - ہڑی توڑنا -
الْحَبْلُ - رسی کھولنا - الْعَمْدُ
او الْأَمْرُ - پختل کے بعد خراب کرنا
نَقَصَ فَلَانٌ وَتَرَكَهُ - فلاں نے
اپنا بدل لے لیا -

نَقَصَ رَضَنْ، نَقَصْنَا - الْمَفْضَلُ و
الادیجہ و نحوہما - جوڑ یا چڑے کا
چڑھانا - آواز کرنا -
نَا قَصْ مَنَا قَضَهُ وَنَقَانَا - مخالف
ہونا -

أَنْقَضَتِ الْعُقَابُ - عقاب کا آواز نہ
نکالنا - أَنْقَضَ أَصَابِعُهُ - انگلیاں
چٹھانا - الْكِمَاةُ دَعَيْنَ الْكِمَاةُ -
سانپ کی چھتری کو زمین سے نکالنا -
بِالْعُزْ - بکری کو بلانا - الْحَمْلُ
السُّطْرُ - زیادہ بوجھ لادنا - بوجھل
کرنا -

تَنْقَضُ - الدَّمُ - خون کا ٹپکنا - الْجَرْحُ -
زخم سے خون بہنا - الْحَبْلُ - رسی
کایل کھلنا - اِیْبَتْ - گھر کا چٹکنا -
تَرْخُنَا - تَنْقَضَتْ عِظَامُهُ - ہڈیوں
سے آواز نکلنا -

تَنَا قَصَ - اِیْنَاوْ او الْحَبْلُ - عمارت کا
تَرْخُنَا - رسی کھلنا - الْقَوْلَانِ - دو
قولوں کا ایک دوسرے کے مخالف،
ہونا - تَنَا قَصْنَا اِیْبِعَ - بیع کو آپس
میں توڑنا -

لَا تَنْقَضُ - اِیْنَاوْ او الْحَبْلُ - عمارت
کا تَرْخُنَا یا رسی کا کھلنا - الْجَرْحُ
بعد یدرہ - زخم کا اچھا ہونے کے
بعد خراب ہونا - الْأَمْرُ بَعْدَ

النَّيَاطِيَه - معاملہ سدھرنے کے بعد
بگڑ گیا - اِلْتَقَصَتِ الطَّهَارَةُ -
طہارت کا باطل ہونا - اِلْتَقَصَ عَلَيْهِ
الْبَلَدُ - اہل شہر اس کی اطاعت سے
نکلے - باغی ہو گئے -

النَّقَاصَةُ - رسی کی کھل ہوئی لڑیاں -
النَّقْصُ - مفاہلتن کے ساتویں حرف
کو حذف کر کے پانچویں کو ساکن کرنا -
النَّقْصُ - منہدم شدہ عمارت - ملیہ - سفر
کی وجہ سے دُبا جانور - دوبارہ کاتا
ہوا خیمہ یا کمبل - زمین کی پیٹری جو
سانپ کی چھتری وغیرہ سے پھٹ جائے
ج - اَنْقَاصٌ وَنَقُوصٌ -

النَّقْصُ - عمارت کا ٹوٹا ہوا حصہ - ج
اَنْقَاضٌ وَنَقُوصٌ -
النَّقْصُ - کشتی کا ایک پیچ -
النَّقْصُ - اُدھڑکا دوبارہ کاتا ہوا -
النَّقِصَةُ - سفر سے دُبا جانور - ج -
اَنْقَاصٌ -

النَّقِيضُ - مخالف - بُنْتُ نَقِيضَةُ -
النَّقِيضُ مِنَ الْأَدَمِ وَالْأَضْلَاحِ و
السَّاقِلِ وَنَحْوِهَا - آواز -
النَّقِيضُ - چوڑے بچھو - مینڈک -
عقاب - شتر مرغ کی آواز - لَقِيضُ
السَّقْفِ - چھت کی لکڑی کی
چرچراہٹ - نَقِيضُ كُلِّ شَيْءٍ
ہر چیز کا رفع اور عکس -

النَّقِيضَاتُ - دوا ایسی ضد چیزیں جن کا
اجتماع ناممکن ہو -
النَّقِيضَةُ - پہاڑی راستہ - وہ نظم جو
کسی نظم کے جواب میں ہو - ج -
نَقَائِصُ -

اَلتَّنَاتُ قَصُ - مص - باہم مخالف ہونا -
نَقَطَ رَنْ، نَقَطْنَا - الْحَرْفُ - حرف پر
نقطہ لگانا - صفت فاعلی - نَقَّطَ -

صفت منقولی - مَنْقُوطٌ - ر - وَلَقَّطَ
بِهِ الرِّمَانُ - زمانہ کا موافق ہونا -
نَقَطَ ثَوْبُهُ بِالْمَدَائِدِ او
الرَّغْفَرَانِ - کپڑے پر روشنائی یا
زعفران سے نقطے لگانا - تَنَقَّطَ
السَّكَاةُ - کسی جگہ گھاس کے مختلف
قطعے واقع ہونا - فَلَانُ الْخَبْرِ -
آہستہ آہستہ خبر لینا - تَنَقَّطْتُ
الْخُبْرَ - میں نے آہستہ آہستہ
روٹی کھائی -

النَّاقِطُ - فا - غلام کا غلام -
النَّقْطَةُ - نقطہ - ج - نَقَاطٌ وَنُقُطٌ -
مَا اخْتَلَفُوا فِي لُقْطَةٍ - انھوں
نے تمام باتوں میں اتفاق کیا - نُقْطَةُ
الدَّائِرَةِ - دائرہ کا مرکز - نُقْطُ
و نَقَاطٌ مِنَ الْكَلَامِ - گھاس کے
متفرق قطعے -

النَّقِيطُ - غلام کا غلام -
النَّقُوطُ - منع - الْمُنْقُوطُ مِنَ الشَّعْرِ -
وہ شعر جس کے تمام حروف نقطے
والے ہوں - يَكُنَابُ مَنْقُوطٌ - اعراب
لگی ہوئی کتاب -

نَقَعَ رَفَ، نَقَعْنَا - آواز بلند کرنا -
الْجَيْبُ - گریبان چاک کرنا - فَلَانًا
کسی کو قتل کرنا - رَيْقَةُ - منہ میں
بھوک جمع کرنا - السَّوْتُ - موت
زیادہ ہونا - فَلَانًا بِالشَّيْءِ -
بُری گالی دینا - بِالشَّرَابِ - شفا
پانا - الدَّوَاءُ وَغَيْرُهُ فِي الْمَاءِ -
دوا وغیرہ کو پانی میں بھگوننا - الرَّجُلُ
مہمانوں کے لیے جانور ذبح کرنا -

نَقَعَ رَفَ، نَقَعْنَا - الصَّوْتُ - آواز
کایلند ہونا - الصَّارِخُ بِصَوْتِهِ -
مسلل چلانا - لَكُ الشَّرُّ - کسی
کے لیے شرارت تیار کرنا - مِنَ الْمَاءِ

دریہ۔ پانی سے سیراب ہونا۔ السَّحَرُ
 فِي آثِيَابِ الْحَيَّةِ۔ سانپ کے
 دانتوں میں زہر جمع ہونا۔ مَا
 نَقَعْتُ بِخَبْرِهِ۔ میں نے اس کی
 تصدیق نہیں کی۔
 نَقَعَ رَفٌ نَقْعًا وَنُقُوعًا۔ المَاءُ
 فِي بَطْنِ الْوَادِي۔ پانی کا وادی میں
 جمع ہو کر بہت دیر ٹھہرنا۔ المَاءُ
 الْعَطَشُ۔ پانی کا پیاس کو بجھانا۔
 أَنْقَعَ۔ السَّادُ وَغَيْرُهُ فِي الْمَاءِ۔
 دوا وغیرہ کو پانی میں بھگوننا۔ الصَّارِغُ
 يَسْتَوِيهِ۔ لنگ تار چلانا۔ المَاءُ
 قَلَانًا۔ سیراب کرنا۔ المَاءُ۔ پانی
 کا متغیر ہو کر زرد رنگ ہونا۔ الرَّجُلُ
 سَمَانِي كَسَيْلِهِ جَانُورٌ ذَنْجُ كَرْنَا۔
 الخَبِيرَةُ السَّمُ فِي أَثْيَارِهَا۔
 سانپ کا زہر اپنے دانتوں میں جمع
 کرنا۔ يَفْلَانُ شَرًّا۔ کسی کے
 لیے شر دل میں چھپانا۔ المَيْتُ۔
 دفن کرنا۔ الْعَطَشُ۔ پیاس بجھنا۔
 اسْتَقَعَ۔ النِّبْيَةُ۔ مہمانی کے لیے
 جانور ذبح کرنا۔
 اسْتَقَعَ۔ لَوْثُهُ غَمٌّ أَوْ كِبَرٌ هَبْطٌ سَے
 رنگ بدل جانا۔
 اسْتَنْقَعَ۔ الصَّوْتُ۔ آواز کا بلند ہونا
 ۔ المَاءُ۔ پانی کا متغیر ہو کر زرد رنگ
 ہونا۔ قَلَانٌ فِي الْخَصْوِ۔ نہریں
 گھس کر دیر تک اس میں نہانا۔
 السَّاءُ فِي التَّيْدِيرِ۔ پانی کا تالاب
 میں جمع ہونا۔
 اسْتَنْقَعَ۔ لَوْثُهُ رَنُگ بدلنا۔ الشَّيْءُ
 فِي الْمَاءِ۔ پانی میں بھگوایا جانا۔
 النَّاقِعُ۔ فَا۔ سَمٌّ نَاقِعٌ۔ زہر قاتل
 دَوَاؤُ نَاقِعٌ۔ فَاؤُہ مندردا۔ دَمٌ
 نَاقِعٌ۔ تازہ خون۔

النَّقْعُ۔ ممر۔ جمع شدہ پانی۔ ج۔ أَنْقَعُ۔
 النَّقْعُ۔ غبار۔ ج۔ نَقَاعٌ۔ و
 نُقُوعٌ۔ النَّقْعُ۔ مکہ شریف
 کے پاس ایک جگہ۔ سنگستانی زمین
 جس میں پانی جمع ہو۔ نرم و ہموار
 زمین۔ پانی ٹھہرنے کی جگہ۔ ج۔
 نَقَاعٌ وَأَنْقَعٌ۔ كَقَعُ الْيَسْرِ۔
 کنویں میں جمع شدہ پانی۔ کنویں کے
 پانی کی زیادتی۔
 النَقَاعُ۔ خشک انگوڑ بھگونے کا برتن۔
 النَقَاعَةُ۔ وہ پانی جس میں کوئی چیز
 بھگوئی جائے۔
 النَقَاعُ۔ نرم و ہموار زمین۔ سنگستانی
 زمین جس میں پانی جمع ہو۔ غبار۔
 آواز۔ ج۔ نَقَاعٌ۔
 النَقَاعُ۔ ان فضیلتوں کا دعویٰ کرنے
 والا جود حقیقت اس میں نہ ہوں۔
 النَقُوعُ۔ ایک رنگ جس میں خوشبو
 پڑی ہو۔ میٹھا ٹھنڈا پانی۔ پانی میں
 بھگوئی ہوئی چیز۔ قَلَانٌ نُقُوعٌ
 اَذُنٌ۔ فلاں آدمی ہر بات مان
 لیتا ہے۔
 النَّقِيعُ۔ بھگوئی ہوئی کھجوروں کا شربت
 شربت جو کشمش کو بھگو کر بنایا
 جائے۔ میٹھا ٹھنڈا پانی۔ بہت
 پانی والا کنواں۔ ج۔ أَنْقَعَةُ خِيَجٍ
 وہ آدمی جس کی ماں غیر قوم کی ہو۔
 النِّبْيَةُ۔ کھانا جو سفر سے آنے
 والے کے لیے تیار کیا جائے۔ مہمان
 کے لیے ذبح کیا ہوا۔ ج۔ نَقَائِعُ۔
 الْأَنْقَعُ۔ زیادہ پیاس بجھانے والا۔ کتے
 ہیں۔ الرَّشَفُ أَنْقَعٌ۔ یعنی
 مٹوڑا تھوڑا پیسا کو زیادہ بجھاتا
 ہے۔ جلد بازی کو چھڑانے کے لیے
 یہ جملہ بولا جاتا ہے۔

الْأَنْقُوعَةُ۔ ہر ایسی جگہ جس کی طرف پانی
 بہہ کر آئے۔ أَنْقُوعَةُ السَّيْزَابِ۔
 پرنا لے کی نالی۔
 الْمُسْتَنْقَعُ۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ تالاب
 کا گھاٹ۔
 الْمَنْقَعُ۔ سمندر۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔
 پانی سے سیرابی۔ ج۔ مَنَاقِعُ۔
 الْمُسْتَقْعُ۔ وہ برتن جس میں کوئی چیز بھگوئی
 الْمُسْتَقْعُ۔ مٹکا۔ پتھر کا پیالہ۔ بھگونے
 کے قابل چیز۔ خالص سرد کیا ہوا دودھ
 فَلَانٌ مُنْقَعٌ۔ فلاں کی رائے پر تسلی
 ہوتی ہے۔
 الْمُسْتَقْعُ۔ چھوٹی ہانڈی جس میں دودھ کھجوریں
 بچے کے کھانے کے لیے ڈالی جاتیں۔
 الْمُنْقَعَةُ۔ خشک انگوڑ وغیرہ بھگونے کا برتن۔
 نَقَعْتُ دَنَ نَقْعًا۔ هَامَةُ الدَّجَلِ۔
 کھوپری توڑنا۔ فلاؤنا۔ کسی کے ہلکی
 ضرب لگانا۔ الْفَوْخُ الْبَيْضَةُ۔ چوزے
 کا انڈا پھوڑ کر نکلنا۔ الرَّمَاةُ۔ اتار
 کودانے نکالنے کے لیے پھیلنا۔ صفت
 فاعلی ناقص، صفت مفعول (نَقِيفٌ وَ
 مَنْقُوفٌ)۔ الشَّرَابُ۔ شراب کو
 صاف کرنا۔ اس میں پانی ملانا۔ عَيْنُ
 الشَّيْءِ۔ تفتیش کرنا۔ نَقْفَةٌ يَطْفُوهُ۔
 ناخن سے چٹکی بھرنا۔
 نَاقَفُهُ مَنَاقِفَةٌ دِنَاقًا۔ ایک دوسرے
 کی کھوپری پر تلوار مارنا۔
 أَنْقَفَ۔ الْجَرَادُ الْوَادِي۔ ٹڈی کا وادی
 کو انڈوں سے بھر دینا۔ خِلَانًا
 الْعُظْمُ۔ کسی کو بڑی گودا نکالنے کے
 لیے دینا۔ دَوْتَقَفَهُ الْحَنْطَلُ۔
 دانے نکالنے کے لیے اندرائیں توڑنا۔
 لَانْتَقَفَ۔ نکلنا۔ رَجُلٌ نَقَافٌ
 دو داندیش آدمی۔ فِي نِقَافٍ
 دُاجِدٍ۔ ایک ہی طریق پر۔ برابر برابر۔



النَّقْفُ وَالنَّقْفَةُ - وہ بچہ جو ابھی اٹھے سے نکلا ہو۔

النَّقْفَةُ - پہاڑ کی چوٹی یا ٹیلہ پر چھوٹا گڑھا۔

النَّقَافَةُ - سوال کرنے کا شوقین اور عادی۔

النَّقِيفُ - دیکھ کا کھایا ہوا تہہ۔ ج۔

النَّقِيفُ - پرندہ کی چورچ۔ ایک قسم کی

کوڑی جو پالش کے کام آتی ہے۔

النَّقِيفُ - مفع۔ زرد رنگ۔ دُبلّا۔ کمزور

کم گوشت۔ کرم خوردہ تہہ۔ حِنَانِ

مَنْقُوقَاتٍ - سرخ آنکھیں۔

نَقْلُ رَن، نَقْلًا - الشَّيْءُ - ایک جگہ سے

دوسری جگہ پر تبدیل کرنا۔ خُفَّتْ

الْبَيْعِيرُ اَوِ الثَّوْبُ اَوِ النَّعْلُ - پیوند

لگانا اور درست کرنا۔ اَلْكَلَامُ

عَنْ قَائِلِهِ - روایت کرنا۔ اَلْكِتَابُ

كِتَابٌ نَقَلَ كَرْنَا - اَلْكِتَابُ اِلَى

لَعْنَتِهِ كَذَا - ترجمہ کرنا۔

نَقَلَ - الشَّيْءُ - چیز کو زیادہ نقل کرنا۔

- اَلْخُفَّتْ اَوِ الثَّوْبُ - پیوند لگانا۔

اور درست کرنا۔ نَقَلْتُ الشَّجَرَةَ

اَلْعُظْمَ - ضرب کا ہڈی کو توڑ ڈالنا

- فَلَانٌ ضَيِّقَةٌ - مہمان کو ناشتہ

کھلانا۔

نَاقِلُ - الْفَرَسُ - گھوڑے کا جلدی جلدی

پاؤں اٹھانا۔ پتھروں سے بچ کر

ہوشیاری سے دوڑنا۔ ایک دوسرے

کو روایت سنانا۔

نَاقِلُهُ الْاَقْدَاحُ - ایک دوسرے کو

پیلے پکڑنا۔ نَاقِلُ الشَّاعِرِ الشَّاعِرِ

شاعر کا شاعر سے مقابلہ کرنا۔

اَنْقَلَ اَلْخُفَّتْ اَوِ النَّعْلُ - درست کرنا۔

تَنَقَّلَ - مِیْنِ مَكَانٍ اِلَى اٰخَرَ - ایک جگہ

سے دوسری جگہ بدل جانا۔ زیادہ منتقل

ہونا۔ نَقْلُ کھانا۔

اَنْتَقَلَ - مِنْ اِلَى - نَقْلُ مکانی کرنا۔

اِلَى رَحْمَتِهِ اللّٰهُ مَجَانًا - الْفَرَسُ -

گھوڑے کا چلنے میں کچھلے پاؤں کو اگلے

پاؤں کی جگہ رکھنا۔

اَلنَّاقِلُ - فَا - ج۔ نَاقِلُونَ وَنَقَلَتِ -

اَلنَّاقِلَةُ - مُؤْنَتِ اَلنَّاقِلُ - ج۔ نَوَاقِلُ

- نَوَاقِلُ الدَّهْرِ - حوادثِ زمانہ۔

اَلنَّاقِلَةُ مِنْ النَّاسِ - نَقْلُ مکانی

کے عادی لوگ۔ نَوَاقِلُ الْعَوْبِ -

ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کی طرف

منتقل ہو کر اس کی طرف اپنی نسبت

کرنے والے لوگ۔

اَلنَّقَالُ - نَاقِلُ کامسدر۔ نیزوں کے

چوڑے چھوٹے پھل۔ واحد نُقْلَةٌ -

اَلنَّقَالُ - چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری

جگہ منتقل کرنے والا۔ فَرَسٌ نَقَالٌ -

تیز رو گھوڑا۔

اَلنَّقْلُ - مِم - پرانا جوتا یا موزہ۔ وہ چیز

جو شراب کے ساتھ استعمال کی جائے

جیسے پستہ، سیب وغیرہ۔ ج۔ نَقُولُ

وَلِنُقُولَاتِ - مختصر راستہ۔

اَلنَّقْلُ - اہل العربیہ کے نزدیک ایک لفظ

کو ایک معنی کے لیے وضع کرنے کے

بعد پھر اس کو دوسرے معنی کے لیے

وضع کرنا۔

اَلنَّقْلُ - پرانا جوتا یا موزہ۔

اَلنَّقْلُ - پرانا جوتا یا موزہ۔ ج۔ اَنْقَالَ

وَنَقَالَ - شور و شغب کے ساتھ

جواب۔ ایک تیر سے نکال کر دوسرے

تیر میں لگایا ہوا پھل۔ گری ہوئی عمارت

کا طبع۔ چھوٹے پتھر۔ مختصر راستہ

مَكَانٌ نَقْلٌ - چھوٹے چھوٹے

پتھروں کی جگہ۔ رَجُلٌ نَقْلٌ - حاضر

جواب آدمی۔ جھکڑ الو۔

اَلنَّقْلَةُ - اَنْتَقَالَ - چغلی۔ ج۔ نَقْلٌ -

اَلنَّقْلَةُ - وہ عورت کہ عمر زیادہ ہونے

کے سبب اس کے پیغام نہ آئیں۔ ج۔

نَقْلٌ -

اَلنَّقِيلُ - مسافر۔ بارش کی زمین سے خشک

زمین میں آنے والا سیلاب۔

اَلنَّقِيلَةُ - جوتے یا موزے کا پیوند۔ ج۔

نَقَائِلُ وَنَقِيلٌ - فَرَسٌ مِّنَا قَلٌ

وَنَقَالَ وَنَقْلٌ - تیز رو گھوڑا۔

اَلْمَنْقَلُ - پہاڑی راستہ۔ مختصر راستہ۔

بوسیدہ جوتا یا موزہ۔

اَلْمَنْقَلَةُ - سفر کی ایک منزل۔ اونٹ

کے موزے کا پیوند۔ اَرْضٌ مَّنْقَلَةٌ -

چھوٹے چھوٹے پتھروں والی زمین۔

اَلْمِنْقَلَةُ - نقل مکان کرنے کا ذریعہ۔ ج۔

مَنَاقِلُ - ایک قسم کا کھیل۔

نَقَمَ رَضٍ، دَلَقَمَ رَضٍ، نَقَمًا و

يَنْقُمًا - مِنْ فُلَانٍ مِّنَا دِينًا -

اَلْأَمْرُ عَلَى فُلَانٍ دَمِينٌ فُلَانٍ

مَلَامَتُ كَرْنَا - عیب لگانا۔ مکروہ جانا

نَقَمَ فُلَانٌ وَتَرَكَ - غلام نے

بدلے لے لیا۔ نَقَمًا، الشَّيْءُ -

جلدی کھانا۔

اَلنَّقَمَةُ - مِنْهُ - مراد دینا۔

اَلنَّقَمَةُ - مِم - راستہ کا درمیان۔

اَلنَّقَمَةُ وَاَلنَّقَمَةُ وَاَلنَّقَمَةُ - بدلہ

مزا۔ عذاب۔ ج۔ نَقَمٌ وَنَقَمٌ

وَنَقِمَاتِ -

اَلنَّقِمَةُ - اچھی طبیعت والا۔

نَقْنَقٌ - اَلضَّفْدَعُ - میٹک کا بچہ انا۔

اَلنَّقْنَقُ - زرشتر مرغ۔

نَقَهَ رَضٍ، نَقُوها وَنَقَهَ رَضٍ، نَقَمًا

- فَلَانٌ مِنْ مَرَضِهِ - صحت یاب


ہونا۔ مکروہی باقی رہنا۔ صفت۔

رَنَاقِهِ، ج۔ نَقَهَ - رَنَاقُهُ و

نُقُوهَا وَنَقَاهَهُ وَنَقَّهَا () -
 الْحَدِيثُ - بات سمجھنا - صفت نَقِہ
 وَنَاقِہ -
 أَنْقَہ - مرنے - تندرست کرنا - فَلَانًا
 الْحَدِيثُ کسی کو بات سمجھاتا - لَنْفَہ
 لِي سَمْعَكَ - میری بات سن -
 لَنْتَقَہ - مِنْ الْحَدِيثِ - تسلی پانا -
 مِنْ مَرَضِہ - مرض سے نجات پانا -
 مَرُورِہ - مگر زوری باقی رہنا -
 لَسْتَنْتَقَہ - بات پوچھنا - سمجھنا -
 النَّقِيَّة - صحت یابی -
 نَقَّاءُ يَنْقُو النَّقْوَاءَ - الْعِظْمَ - ہڈی کا
 گودا نکالنا -
 نَقِيٌّ يَنْقِي لَقَادَةً وَنَقَاءً وَنَقَاءَةً وَ
 نَقَاوَةً وَنَقَايَةً - صاف ہونا -
 خوبصورت ہونا - خالص ہونا - صفت
 نَقِيٌّ -
 نَقَاهُ تَنْقِيَةً وَنَقَاهُ رَنْقَاءً - صاف
 سُمَّا کرنا - پسند کرنا -
 نَقَى وَانْقَى الطَّعَامَ غَلَّهَ كَوَاطِرَ كَرُطٍ
 سے صاف کرنا -
 انْقَى الْبُرَّ - گیوں کا موٹے دانہ والا ہونا -
 انْقَمَتِ الْإِبِلُ وَغَيْرُهَا - اونٹ
 کا موٹا ہونا - صفت مُنْقِيَّة - جہ
 مُنْقِيَات -
 رَنْقَاءُ رَنْقَاءً - پسند کرنا - چُنتا -
 رَنْقَى الْعِظْمَ - ہڈی کا گودا نکالنا -
 تَنْقَا تَنْقِيًا - چُنتا -
 نَقَاوَةُ الشَّيْءِ وَنَقَادَتُهُ وَنَقَايَتُهُ وَ
 نَقَاتُهُ - عمدہ حصہ - خلاصہ - نَقَاوَةُ
 كَجَمْعِ نَقَايَا وَنَقَاءٍ - نَقَاهُ الطَّعَامَ
 وَنَقَاتَهُ وَنَقَايَتَهُ وَنَقَايَتَهُ -
 غلہ کا کوڑا کرکٹ -
 النُّقَادَةُ - ایک قسم کی نباتات جس سے
 کپڑے دھوئے جلتے ہیں - جہ - نَقَاوِي

النَّقَا - ریت کا اُبھرا ہوا طیلہ - شئی - نَقْوَان
 وَنَقِيَان - جہ - انْقَاء وَنَقِي وَ
 نَقِيَان -
 النَّقَا وَالنَّقْوُ وَالنَّقْوُ - گودے دار ہڈی -
 جہ - انْقَاء -
 النَّقْوَةُ - عمدہ حصہ -
 النَّقِي - صاف سُمَّا - جہ - نَقَاءُ وَالنَّقِيَاءُ
 وَنَقْوَاء -
 الانْقَى - اسم تفضیل - مَوْنَتُ نَقْوَى -
 رَجُلٌ انْقَى - باریک لمبی ہڈیوں والا
 مَوْنَتُ نَقْوَاء -
 نَقِيٌّ يَنْقِي نَقِيًا - الْعِظْمَ - ہڈی کا
 گودا نکالنا -
 نَقِيَّةٌ يَنْقَاهُ - نَقَاءً - ملاقات کرنا -
 النَقِي - ہڈی کا گودا - آنکھ کی چربی - جہ
 انْقَاء -
 النَقِيَّة - کلمہ -
 النَقِي - صاف سُمَّا - جہ - نَقَاءُ وَالنَّقِيَاءُ
 وَنَقْوَاء -
 السُّنْقِي - راستہ - سُرُك -
 نَقَّ دَن، نَقَّا - عَلَى الْغَرِيْبِ - قَرَضًا
 پر سنبھلی کرنا - الْعَمَلِ - کام کو درست
 کرنا -
 نَقَّافٌ نَقَّا - الْقُوَّةَ - زخم کو اچھا
 ہونے سے پہلے چھیننا - الْعَدُوَّ
 وَفِي الْعَدُوِّ - دشمنی میں قتل و غارت
 ڈالنا - خونریزی کرنا - فَلَانًا حَقَّقَهُ
 مِنْ قُلَانٍ - کسی کا پورا حق ادا کرنا -
 رَنْقَاؤُ رَنْقَاؤًا - حَقَّقَهُ مِنْ قُلَانٍ
 کسی سے اپنا حق وصول کر کے قبضہ
 کرنا - نَوَّكَ نَوَّكًَا - جلدی ادا کرنے
 والا - طال مٹول نہ کرنے والا -
 نَكَبٌ دَن، نَكَبًا وَنَكُوْنَا - عنہ - ہٹ
 جانا - تجاوز کرنا - نَكَبًا، الشَّيْءُ وَ
 بَلَّہ - پھینکنا - الإكَاءُ - جو کچھ برتن میں

ہے گرا دینا - اِكِنَا نَكَبًا - ترکش سے
 سب کچھ بکھیر دینا - نَكَبَتِ الْحِجَارَةُ
 رَجُلًا - پتھر کا پاؤں کو زخمی کرنا -
 نَكَبًا وَنَكَبًا، الدَّهْرُ فَلَانًا - زمانہ
 کا کسی کو مصیبت پہنچانا - نَكَبَتِ
 نَكُوْنَا - اَلِدَّيْمُ - ہوا کا طیر ہا چلنا -
 نَكَبٌ دَن، نَكَبًا وَنَكُوْنَا - فَلَانٌ عَلَى
 قَوْمِہ - مددگار - قابل بھروسہ ہونا -
 نَكَبٌ دَن، نَكَبًا - عَيْنُ الطَّرِيقِ - راستہ
 سے ہٹ جانا - اَلْبَعِيْرُ - اونٹ کا
 نکب بیماری والا ہونا - الدَّجُلُ -
 کسی کا کندھے کی بیماری والا ہونا -
 نَكَبٌ - مصیبت زدہ ہونا -
 نَكَبٌ - عَيْنُ الطَّرِيقِ - راستہ سے ہٹ
 جانا - ایک طرف ہونا - الشَّيْءُ - بٹانا
 ایک طرف کرنا -
 نَا كَبَةً - مَوْنَتُہ سے مقابل ہونا -
 تَنْكَبٌ - عنہ - ہٹ جانا - اَلگ ہونا -
 بَجَنًا - کندھا موڑ کر دوسرے کی جانب
 متوجہ ہونا - عَلَى الشَّيْءِ - ٹیک لگانا
 كِنَا تَنْتَهُ اَوْ قَوْسَهُ - اپنے ترکش یا
 اپنی کمان کو کندھے پر ڈالنا -
 رَنْتَكَبٌ - الدَّجُلُ كِنَا تَنْتَهُ اَوْ قَوْسَهُ
 ترکش یا کمان کو کندھے پر ڈالنا -
 النَكَبُ - مَص - مصیبت - جہ - نَكُوْب
 النَكَبُ - پتھر سے زخمی پاؤں والا -
 النَكَبُ - مَص - جھکاؤ - اونٹوں کی ایک
 بیماری جو موٹے میں پیدا ہوتی ہے -
 الَانْكَبُ - بغیر کمان کا آدمی - ایک شانہ
 کو دوسرے شانے سے اونچا رکھنے والا -
 النَكْبَاءُ - مَوْنَتُ الَانْكَبُ - رَنْجُہ نَكَبًا
 ٹیڑھی چلنے والی ہوا - جہ - نَكَبٌ وَ
 نَكَبَات -
 النَكْبَاءُ - شمال مشرق ہوا -
 النَكْبَةُ - مصیبت - جہ - نَكَبَات -



النَّكْبَةُ - بے اندازہ غلہ کا ڈھیر - جر
نَكَبٌ -

النَّكِيبُ - کھر کا گرد گرد -

النُّكَابُ - ظالم - جفا کار -

النُّكَيْبُ - کندھا - شانہ - جر - مَنَّاكِبُ

تَشَابَهَتْ مِنْهُمُ الْمَنَّاكِبُ -

وَالْوُدُودُ - وہ سب ایک جیسے

ہیں - کوئی ان میں بڑھا ہوا نہیں -

هَرَقَ مَتَكِبَةً كَذًا - وہ اس سے

خوش ہوا -

النُّكَيْبُ - پہلو گوشہ - مددگار - محافظ

سطح مرتفع -

النَّمَاكِبُ - گدھ کے چھوٹے پر -

النُّكُوبُ - مفع - مصیبت زدہ - وہ

شخص جس کا پاؤں پھر سے زخمی ہو -

نَكَتَ دَن، نَكْتًا - الارضُ يَقْضِيْبُ

او یا صُبْعِي - غور و فکر کے وقت زمین

کو لکڑی یا انھلی سے کریدنا - انْأَسَ

بِالْحَصَى - لوگوں کا زمین پر کھڑکھینکنا

- الْفَرَسُ - گھوڑے کا اُچھلنا -

الْعَطْفُ - ہڈی کا گودا نکالنا - فَلَا تَأْ

كُسى كُوسِرَ كُى كُرى - كُرى كُرى

ترکش سے بکھیر دینا -

نَكَتَ - الرُّطْبُ - کھجور کا سرخی پکڑنا -

فِي قَوْلِهِ - نکتہ چینی کرنا -

اُنْتَكَّتْ فَلَانٌ كُسى كُوسِرَ كُى كُرى -

النُّكْتَةُ - داغ - زمین پر کریدنے کا نشان

جر - نَكْتٌ وَنَكَاتٌ - النُّكْنَةُ

آئینہ یا تلوار کا داغ - کلام کی باریکی

طبیقہ -

النَّكَاتُ - بڑا نکتہ چین - کلام میں نکتے

لانے والا -

النَّمُكُوتُ - سر کے بل گرا ہوا -

نَكَتَ رَضَن، نَكْتًا - الْعَهْدُ او

الْبَيْعُ - عہد یا بیع توڑنا یا - فسخ کرنا

۱- الْجُلُ - رسی کھولنا - السِّوَالُ

سوال کا سر نرم کرنا -

اُنْتَكَّتْ - الْجُلُ دَغِيرُكَ - رسی وغیرہ

کا کھلنا - السِّوَالُ - سوال کا

سرے کا نرم ہونا - فَلَانٌ مِنْ

حَاجَةٍ اِلَى الْخُرَى - ایک کام سے

بہٹ کر دوسرے کام کی طرف متوجہ

ہونا -

النَّكَاتُ - اونٹ کے منہ کی پھنسیاں -

النَّكَاتَةُ - رسی کا کھلا ہوا حصہ -

النَّكْتُ - دوبارہ کاتنے کے لیے ادھیڑا

ہوا کبل یا خیمہ - جر - اُنْكَاتٌ -

النَّكِيْتُ - ادھیڑا ہوا - ثَمُوتٌ نَكِيْثَةٌ

النَّكِيْثَةُ - نفس طبیعت - قوت پوری

پوری کوشش - مشکل کام - قَالَ

قَوْلًا رَّكَكِيْثَةً فَبِهِ - اس نے

ایسی بات کہی جس میں خلاف و عداوت

نہیں - صَوَفَ فَبِهِ نَكِيْثَةٌ -

اس نے اس میں بے انتہا کوشش

کی - وَقَعُوا فِي النَّكِيْثَةِ - وہ مشکل

کام میں بھنس گئے - خُذْ نَكِيْثَةً -

حَسَنَةً - اچھی طبیعت والا - جر

نَكَاتٌ -

النَّكَاتُ - بنی ہوئی یا بٹی ہوئی چیز کو

ادھیڑنے والا -

النُّنْكَاتُ - دُیلا -

نَكَتَ رَضَن، نَكْتًا وَنَكْتًا - الْمَرْأَةُ

عورت سے نکاح کرنا - نَكَحَتْ

الْمَرْأَةَ - عورت کا نکاح کرنا شادی

کرنا - صفت ناکح و ناکحت -

نَكَحَ الْمَطْرُ الْأَرْضَ - بارش مٹی

میں جذب ہو گئی - الْمَدَاوُ فُلَا تَأْ

دوا کا کسی میں اثر کرنا - النُّعَاسُ

عینہ - نیند کا آنکھوں پر غالب

آنا -

اُنْكَحَتْ - الْمَرْأَةُ - عورت سے شادی کرنا -

تَنَّاكَحُوا - ایک دوسرے سے شادی کرنا

تَنَّاكَحَتِ الْأَشْجَارُ - درختوں کا

آپس میں مل جانا -

اِسْتَنَكَحَ - الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ - مرد کا

عورت کو نکاح میں لانا - شادی کرنا -

رَفِي بَنِي فُلَانٍ - نکاح کرنا - انْزَمَ

عَبُودُهُمْ - نیند کا آنکھوں پر

غالب آنا -

النَّمَاكِبُ - عورتیں -

نَكَتَ رَضَن، نَكْتًا - فَلَا تَأْ فِي حَلْقِهِ -

حلق میں مُکا مارنا - نیزہ مارنا -

نَكَدَ - رَضَن، نَكَدًا - فَلَا تَأْ حَاجَتَهُ -

کسی کو حاجت سے روک دینا - محروم

کرنا یا تھوڑا دینا - نَكَدَ الْعَوْرَتِ

کوئے کا بہت کانٹیں کاٹیں کرنا -

الْقَوْمُ الرَّجُلُ - بہت سوالوں سے

تنگ دست کر دینا - نَكَدَ الرَّجُلُ -

بہت سوالوں والا اور کم بھلائی والا

ہونا -

نَكَدَ رَضَن، نَكَدًا - الْعَبِيْثُ - گزران کا

تنگ ہونا - الرَّجُلُ - تنگ گزران

والا ہونا - نَكَدَتْ اِبْنُؤْ - کنویں کا

پانی کم ہونا -

نَكَدَ - حَبِيْثَةٌ - زندگی کو تنگ کر دینا -

فَلَا تَأْ - کسی کی زندگی کو مکر کرنا -

نَاكَدَ كُ - تکلیف دینا - سَخِي بَرْتَنَا -

اَفْكَدَ كُ - کسی کو کم خیر پانا -

تَنَّاكَدَ عَيْشُهُ - زندگی مکر ہونا -

تَنَّاكَدَا - ایک دوسرے سے سخی بڑتنا -

النَّاكِدُ - فَا - نَاكَدَ نَاكَدُ - کم دودھ والی

اونٹنی - وہ عورت جس کے بچے زندہ

نہ رہتے ہوں - جر - نَكَدَ - رَجُلٌ

نَكَدٌ وَ نَكَدٌ وَ نَكَدٌ - درشت خو - کم

داد و دہش والا - جر - اُنْكَادُ وَ مَنَّاكِبُ -



النَّكْدُ - بے دودھ والی اونٹنیاں - بہت دودھ والی اونٹنیاں (دند) واحد نَكْدَاءُ -

النَّكْدُ وَالنَّكْدُ - کم داد و دہش - مَاءُ نَكْدٍ - کم پانی -

الْأَنْكَدُ - کم داد و دہش والا - مَوْتُ نَكْدَاءٍ - ج - نَكْدٌ - عَطَاءٌ مُنْكَدٌ وَ مَنُكُوٌّ - تھوڑا عطیہ - رَجُلٌ مَنُكُوٌّ - وہ شخص جس سے سوال میں اصرار کیا جائے -

نَكْرُوسٌ - نَكْرٌ وَ نَكْرٌ وَ نَكْرٌ وَ نَكْرٌ وَ نَكْرٌ - کسی امر سے ناواقف ہونا - الرَّجُلُ - کسی کو نہ جاننا -

نَكْرٌ دَاوِیُّ شَکَّارٍ - الامور مشکل ہونا دشوار ہونا -

نَكْرٌ - تبدیل کرنا - نَكْرٌ الْإِسْمُ - اسم کو کرہ بنانا -

نَاكَرَةٌ مُنَاكَرَةٌ - مقابلہ کرنا - لڑنا - دھوکا دینا -

أَنْكَرَةٌ - جاہل ہونا - أَنْكَرَ حَقَّةً - انکار کرنا - أَنْكَرَ عَلَيْهِ فَحَدَّ - عیب لگانا - منع کرنا -

تَنَكَّرَ - الرَّجُلُ - اچھی حالت سے نکل کر بد حال ہونا - بھیس بدلنا - فَلَانٌ - بد خلق ہونا - لِفُلَانٍ - اجنبی ہونا -

مَتَنَّاكَرَ - جان بوجھ کر ناواقف بننا - الْأَمْرُ ناواقف ہونا - اِلْقَوْمُ - ایک دوسرے سے اجنبیوں یا دشمنوں کا سا سلوک کرنا -

اِسْتَنَكَّرَ - الْأَمْرُ - کسی امر سے ناواقف ہونا - أَمْرًا يَجْهَلُكَ - نا معلوم امر کے بارے میں پوچھنا -

النَّكَارَةُ - مم - چالاکی - تیز فہمی - جہالت - النُّكْرُ - مم - چالاکی - تیز فہمی -

النُّكْرُ - مم - چالاکی - سمجھ - ذہانت - بُرَا کام سخت برا کام - رَجُلٌ نَكِيرٌ وَ نَكِيرٌ

وَنَكِيرٌ - چالاک - تیز فہم - ج - اَنْكَارٌ - النُّكْرُ - مجہول - سخت کام -

النُّكْرَاءُ - چالاکی - تیز فہمی - مجہول - ناشناختہ - مصیبت -

نَكْرَاءُ الدَّهْرِ - زمانہ کی سختی - النُّكْرَةُ - انکار - معرفتی نند - خون پامپ کا پھوٹا - ج - نَكْرَاتٌ -

النُّكْرَةُ - انکار سے اسم - النُّكَيْرُ - دگرگوئی - أَمْرٌ نَكِيرٌ - سخت کام - حَصْنٌ نَكِيرٌ - مضبوط قلعہ -

النُّكْرُ - مفع - وہ قول یا فعل جو اللہ تعالیٰ کے خلاف مرضی ہو - ج - مُنْكَرَاتٌ وَ مَنَاكِرٌ - رَجُلٌ مُنْكَرٌ - چالاک - سمجھدار - ج - مُنْكَرُونَ وَ مَنَاكِرٌ -

النُّكْرُوسُ - مفع - مجہول - ج - مَنَاكِرٌ - النُّكْرُوسُ - ناپسندیدہ امور -

النُّكْرُوسُ - اسم نکرہ - تقيض معرفہ - نَكْرَتٌ دَن - نَكْرَاءُ - الْحَيَّةُ فَلَانًا - سانپ کا کسی کو ڈسنا - فَلَانًا - مارنا -

دفع کرنا - ہٹانا - الشَّيْءُ - چھوٹنا - أَلَدَ ابْنَةُ بَعْفِيہ - جانور کو ایڑے مارنا - نَكْرٌ وَ نَكْرٌ زَامِ الْمَاءِ - پانی کا زمین میں جذب ہونا - الْبَحْرُ خشک ہونا - الْبَيْتُ - کنویں کا پانی کم ہونا -

نَكْرَتٌ دَن - نَكْرَاءُ - الْبَيْتُ - کنویں کے پانی کا کم ہونا یا ختم ہونا - أَنْكَرَ - الْبَيْتُ - کنویں کے پانی کو ختم کرنا -

النَّاكِرُ - فَا - بَيْتٌ نَاكِرٌ - وہ کنواں جس کا پانی ختم ہو گیا ہو - ج - نَوَاكِرٌ - النُّكْرُ - ردیل لوگ - بڑی میں بچا ہوا گودا -

النُّكْرُوسُ - خالی - النُّكْرُوسُ - ایک قسم کا چھوٹے سروال زبریا سانپ - ج - نَكَاكِرٌ وَ نَكَاذَاتُ الْبَيْتِ - النُّكْرُوسُ - وہ کنواں جس کا پانی

ختم ہو گیا ہو - ج - نَكْرٌ - نَكْسٌ دَن - نَكْسًا - اوندھا کرنا - نَكْسُ رَأْسُهُ - ذلت سے سر جھکانا - الطَّعَامُ وَغَيْرُهُ دَاءُ الْمَرِيضِينَ - کھانے کا مرض کو لوٹا دینا - الْخَضَابُ - خضاب بار بار لگانا -

نَكْسُ الْمَرِيضِينَ - دوبارہ بیمار پڑنا - الرَّجُلُ - کمزور ہونا - عاجز ہونا - الرَّجُلُ عَنْ نَظَرٍ آتَاهُ - اپنے ہم عمروں سے کوتاہی کرنا -

نَكْسُهُ تَنَكُّيسًا - اوندھا کرنا - نَكْسُ الْفَرَسِ - گھوڑے کا اور گھوڑوں سے نہ مل سکتا - صفت مُنْكَسٍ - تَنَكُّسٌ - اوندھا ہونا -

النُّنْكَسُ - سر کے بل گرنا - دوبارہ بیمار پڑنا - النَّاكِسُ - فَا - سر جھکانے والا - ج - نَوَاكِسٌ - النُّكَّاسُ - بیماری کا عود -

النُّكْسُ - مرض کا عود - گر کر نہ سنبھلنا اور پھر دوبارہ پہلے سے زیادہ زور سے گرنا - نَعَسًا لَهُ وَ نَكْسًا وَ تَسْعًا لَهُ وَ نَكْسًا - خدا اس پر مصیبت ڈالے -

النُّكْسُ - ٹوٹے ہوئے سروال تیر - کمان جس میں شاخ کے سرے کو چھل حصہ بنائیں کمزور کینہ بے خیر آدمی - پستہ قد - کرم و سخاوت میں کوتاہی کرنے والا - ج - أَنْكَاسٌ -

النُّكْسُ - بہت بوڑھے لوگ - مفرد - نَاكِسٌ - النُّنْكَسُ - فَا - آہستہ چلنے والا گھوڑا جو سر نہ اٹھائے - وہ گھوڑا جو اور گھوڑوں سے نہ مل سکے -

النُّنْكَوسُ - مفع - دوبارہ بیمار ہونے والا - مِنَ الْأَوَّلِ - پائل بچہ - نَكْسُ رَن ض، نَكْسًا - الْبَيْتُ - کنویں کی مٹی نکالنا - الشَّيْءُ - چیز کو فنا کرنا -

الشئ و من الشئ - فارغ ہونا -
لَشَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ - معنی نکلتی -

الْمِنْكَشُ - معاملات میں غور و خوض کرنا
الْمِنْكَاشُ - کنواں صاف کرنے کا آلہ -
جہ - مَنَاشِش -

الْمَنْكُوشُ - مفعول - سَقَطَ مَنْكُوشٌ - ڈکرا
جس میں سب کچھ نکال دیا گیا ہو -
تَكْصَ دَنَ صَ، تَكْصَا وَ تَكْوَصَا وَ
مَنْكَصَا - عَنِ الْأَمْرِ - کسی امر سے
رُکنا - باز رہنا - صفت ناکرہی -
تَكْصَ عَلَى عَقِيْبِيْہِ - پہلے کام سے
ہٹ گیا -

تَكْصَا - ہٹا دینا -
لِشَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ - ایڑیوں کے بل بٹنا -
السُّكْصُ - بیٹنے کی جگہ -

تَكْظَا وَنَ، تَكْظَا - بہت بھوکا ہونا -
فَلَانًا عَنْ حَاجَتِيْہِ - جلدی کرنا -

تَكْظَا دَنَ، تَكْظَا - حاجت میں جلدی
کرنا - لِيُنْخَوِّجَ - نکلنے کے لیے جلدی

کرنا - الدَّجِيلُ - کوچ قریب ہونا -
تَكْظَا - عَنْ حَاجَتِيْہِ - جلدی کرنا -
تَكْظَا حَاجَتِيْہِ - مشکل بنانا -

تَكْظَا - الدَّجِيلُ - سفر میں حالت سخت ہونا
- عَلَى فُلَانٍ - بھل کرنا - الامر علیہ

کسی پر کوئی معاملہ مشکل دیکھنا - ہونا -
النَّكْظُ وَالنَّكْظُ وَالنَّكْظَةُ وَالنَّكْظَةُ
وَالنَّكْظَةُ - کوشش - سفر کی سختی -
جلدی -

تَكْظَا دَنَ، تَكْظَا - عَنِ الْأَمْرِ - جلدی
کرنا - رو کرنا - فَلَانًا - پاؤں کی پشت

سے مارتا - فَلَانًا حَقَّةً - حق روک
لینا - تَكْظَا وَ تَكْظَا - الْمَاشِيَّةُ

موبیٹی کے تھن کو مار کر دودھ نکالنا -
فُلَانٌ عَنِ الْحَاجَةِ - بچنا - سستی
کرنا - مَا أَدْرِيْ أَيْنَ تَكْظَا - میں

نہیں جانتا - وہ کہاں گیا -

تَكْظَا دَنَ، تَكْظَا - چھلی ہوئی ناک والا ہونا
تَكْظَا - عَنْ حَاجَتِيْہِ - حاجت سے ہٹنا
دینا - جلد بازی سے زندگی کو بے مزہ
کرنا -

أَكْظَا - رُوکرو - دفع کرنا - تھکانا -

عَنِ الْأَمْرِ - جلدی کرنا - ہٹنا -
أَكْظَا يَفِيْتِيْہِ - مطلب فوت ہو
گیا - تَكْظَا فَا تَكْظَا - اس نے
کلام کر کے اس کو خاموش کر دیا -

التَّكْظَا - سرخی فام - چھلی ہوئی ناک والا -
التَّكْظَا - سرخ رنگ - سرخی مائل سیاہ
رنگ -

تَكْظَا - الْأَنْفُ - ناک کا کنارہ -

التَّكْظَا - سرخ رنگ ناک چھدا آدمی -
بیوقوف بیٹھ کر جم جانے والا -

التَّكْظَا - ناک کا کنارہ - ایک سرخ
رنگ کے درخت کا پھل - فنادورخت
کا گوند - انسان کی سرخی ملی ہوئی
سیاہی -

الْأَنْفُ - سُرْخِ چہرے والا جس کی ناک
چھل گئی ہو -

السُّكْصُ - پیچھے لوٹنے والا -

تَكْظَا دَنَ، تَكْظَا - عَنْ كَذَا - ناک بھول
چڑھانا - رُکنا - الگ ہونا - صفت

نَاكِيْفٌ - خِيْبَتْ لَا يُنْكَفُ - لگاتار
بارش - يَخْرُؤُ وَجِيْنٌ لَا يُنْكَفُ -

بے پایاں سمندر - بیشمار فوج -
تَكْظَا دَنَ، تَكْظَا - مِنْهُ اَوْعَنْهُ - ناک

بھول چڑھانا - باز رہنا - بیزا رہنا -
تَكْظَا اَيْدُ - ہاتھ میں درد ہونا -

نَاكِيْفُ الْكَلَامِ مَنَّا كَفَا - ترک یہ ترک
جواب دینا -

أَكْظَا - پاک کرنا - دور کرنا - أَكْظَا
اللہ - پاکی بیان کرنا -

تَكْظَا - الْكَلَامِ - آپس میں باری باری سے
گفتگو کرنا -

لِشَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ - الْغِيْثُ - منقطع کرنا - القوم
قوم کا ایک ملک سے دوسرے ملک
میں جانا - ابیو - مائل ہونا - الدَّجِيلُ
رسی کا کھل جانا - الدَّجِيلُ - بیزا رہنا -
الْعَرَقُ عَنْ جِيْنِيْہِ - پیشانی سے
پسینہ پرچھنا -

لِشَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ - الدَّجِيلُ - بیکر کرنا - مِنْ كَذَا
- غرور و تکبر و عار کی وجہ سے رکتا -
باز رہنا -

التَّكَاثُ - ادنیٰ کے حلق کا ایک مرض جس
سے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے -

التَّكَاثُ - جڑے کی جڑ میں چھوٹے چھوٹے
غذود - واحد تَكْظَا -

التَّكْظَا وَ التَّكْظَا - جڑے کی دو
آگے نکلی ہوئی ہڈیاں - جہ - تَكْظَا -

التَّكْظَا - کان کا درد -
السُّكْصُ - مفعول - نکات کی بیماری والا -

تَكْظَا دَنَ صَ، تَكْظَا وَ تَكْظَا - ناک
عَنْ كَذَا اَوْ مِنْ كَذَا - پیچھے ہٹنا -

بزدل ہونا -
تَكْظَا دَنَ، تَكْظَا - يَقْلَانُ - کسی کو

عبرت ناک سزا دینا -
تَكْظَا دَنَ، تَكْظَا - سزا قبول کرنا -

تَكْظَا - بہ - مصیبت ڈالنا - قابلِ عبرت سزا
دینا - تَكْظَا - عَنِ الشَّيْءِ - باز رکھنا -

یکسو کرنا -
أَكْظَا - عَنْهُ - ہٹانا - دفع کرنا -

التَّكَاثُ - بزدل - کمزور -
التَّكَاثُ - عبرت ناک سزا -

التَّكَاثُ - مضبوط بیڑی - جہ - اَنْكَاثُ وَ
مُكَاثُ - گام کا لوہا - ہمار - اَنْكَاثُ تَكْظَا

شیر - وہ شریوں کا تازیانہ ہے -
التَّكَاثُ - قوی آدمی - ہمسروں پر غالب ہونا والا -



اَنَمَسَ - بَنَى القوم - قوم میں فساد ڈالنا۔
تَنَمَسَ - اَلْمُسَرَّحُ کام کا خط ملط ہونا۔
ملتس ہونا۔

اَنَمَسَ اِنْمَاسًا - الرجلُ - چھپنا - فِي الشَّيْءِ - داخل ہونا۔

النَّامُوسُ - رازدار - دجی - حاذق - جھوٹا
چغلیور - شکار کی گھات کی جگہ (مالا)
راہب کا گھر - شکاری کا جال - دھوکا
فریب - خفیہ حیلہ - جیونٹی کی طرح کا
ایک کپڑا - شیر کی جھاڑی - جہ۔

لَوَامِيسُ - الناموس - شریعت -
النَّامُوسُ الْاَكْبَرُ - حضرت جبریل

علیہ السلام۔

النَّامُوسَةُ - شیر کی جھاڑی۔

النمّس - نیولا۔

النمّس - گھی و خوشبو وغیرہ کی خرابی۔

النمّسة - بدبو۔

النمّاس - چغلیور۔

اَلْمُتَمَسِّ - ٹیالا - مؤنث نمّساء - جہ - نمّس
اَلْمُتَمَاسِی - سرگوشی کرنے والا گھات کی
جگہ میں داخل ہونے والا۔

نَمَشَ (ن) - نَمَشًا - چغلی کھانا - جھوٹ
بولنا - اَلْکَلَامَ - جھوٹی بات بنانا -
اَلْجَرَادُ اَلْاَرْضَ - ٹڈی کا زمین کی

سبزی کو چر جانا۔

نَمَشَ رَضًا - نَمَشًا - منقش کرنا۔

نَمَشَ رَسًا - نَمَشًا - دھاریدار ہونا۔ صفت
اَنَمَشَ و نَمَشَ - نَمَشَ - فِي
اُذُنِهِ - کانہ بھوسی کرنا۔

اَنَمَشَ اَلرَّجُلُ - چغلیوری کرنا۔ اَنَمَشَ
بَيْنَهُمَا - فساد ڈالنا۔

النمّش - مم - چکنی چٹری بات۔
النمّش - مم - داغ - دھاری نقش و نگار
کے خطوط۔

النمّش - دھاریدار - جو ہر دار تلوار۔

اَلْاَنَمَشُ - داغدار - دھاریدار - مؤنث
نَمَشَاء - جہ - نَمَشَ - رَجُلٌ
مُتَمَشٍ - مفسد آدمی۔

نَمَصَ (ن) - نَمَصًا - الشَّعْرَ و اَلنَّبْتَ -
بال یا نبات اکھڑنا۔

نَمَصَ تَمَيِّضًا و تَمَاصًا - الشَّعْرَ -
بال اکھڑنا۔

اَنَمَصَ - اَلنَّبَات - نباتات کا جانور کے
چرنے کے بعد دوبارہ اگنا۔

تَنَمَصَت - اَلْمَا شَيْئَةً - مویشی کا پہلی
سبزی چرنا - عورت کا پیشانی کے بال
اکھڑنے کے لیے کپڑنا۔

اِنْمَاص - سوئی کا دھاگا۔

اِنْمَاص - حیدر - جہ - نَمَصَ و اَنَمَصَت -

اِنْمَصَ - نرم و ملائم بال - جھوٹے جھوٹے

پر - ابتلائی نباتات - ایک قسم کی نرم

گھاس جس سے سر پوش وغیرہ بناتے ہیں۔

اِنْمِص - اکھڑے ہوئے بال - مِنْ

اَلنَّبْتَ - سبزی جو مویشی کے چرنے
کے بعد پھوٹے۔

اَلْمِنْمَصُ و اَلْمِنْمَاص - موجنا۔

نَمَطَ تَمَيُّظًا - بِفُلَانٍ الشَّيْءَ و عَلَيَّ
الشَّيْءَ - رہنمائی کرنا۔

اَنَمَطًا - لَهُ اَلْعَطَاءُ - کسی کو بھڑکی
بخش دینا۔

النمّط - غالیچہ - ٹوکرے کے مانند ایک

طرف - طریقہ - راستہ - نوع - روش

زمین پر ڈالنے کا کپڑا - صوف کا کپڑا

جو ہودج پر ڈالا جاتا ہے - جہ

اَنَمَاطَ و نَمَاطَ - نسبت کے لیے

اَنَمَاطِی و نَمَاطِی - لوگوں کی جماعت

جن کا معاملہ ایک ہو - عَلَيَّ هَذَا

النمّط - اس طریقہ پر - هُوَ عَلَيَّ

نَمَطًا و اَحَدًا - وہ ایک ہی قسم کے

ہیں - مَا عِنْدَهُ نَمَطٌ مِّنَ الْعِلْمِ

اس کے پاس علم کی کوئی قسم نہیں۔

اَلْاَنَمَطُ - طریقہ۔

النمّط - پہاڑ کی چوٹی - مال کی زیادتی۔

قوم کا بہترین حصہ۔

اِنْمَاطَةٌ - سر کا بالائی حصہ - بچہ کا نرم

حرکت کرتا ہوا تالو یا چُنڈیا۔

نَمَقَ (ن) - نَمَقًا - عَيْنَ فُلَانٍ - آنکھ پر

تھپڑ مارنا - اَلْکِتَاب - کتاب لکھنا۔

نَمَقَ اَلْکِتَابَ - کتاب کو خوبصورت لکھنا۔

اَلْجِلْدَ - کھال کو منقش کرنا۔

اَنَمَقَت - اَلنَّخْلَةَ - درخت خرما کے

بے گھلی کھجوروں والا ہونا۔

النمّق - کتاب - برٹک کا درمیانی حصہ۔

النمّقة - بدبو - ثَوْبٌ عَمِيقٌ و مُنَمَّقٌ -

منقش کپڑا۔

اَلْمُنَمَّقُ - بناوٹی گفتگو۔

نَمَلَ (ن) - نَمَلًا و نَمَلًا دَسًا - نَمَلًا و

اَنَمَلًا - چغلی کھانا - نَمَلًا و نَمَلًا -

فِي الشَّجَرِ - درخت پر چڑھنا۔

نَمَلَت دَسًا - نَمَلًا - يَدًا - ماتھ کا

سُن ہونا۔

تَنَمَل - اَلْقَوْمَ - حرکت کرنا - بعض کا بعض

میں گھٹنا۔

النَّامِل - فَا - چغلیور۔

النَّامِلَةُ - عام چلتا ہوا راستہ۔

النمل و النمل - جیونٹی - واحد نَمْلَةٌ و

نَمْلَةٌ دَفْدَكُ و مؤنث - جہ - نَمَال -

النمل - پہلو کی پھنسیاں۔

النمل - چغلیور - بہت جیونٹیوں والی جگہ۔

قَرَسٌ نَمَلٌ و نَمَلٌ اَلْقَوَائِمُ

شوخ گھوڑا - جو پھلانہ کھڑا ہو - رَجُلٌ

نَمَلٌ اَو قَمَلٌ اَلْاَصَابِعَ - پھرتیل آدمی۔

النمّلة - جھوٹ - جانور کے کھر کی پھٹن - پہلو

کی پھنسیاں - ایک سوزش دار پھنسی جو

جگہ بدلتی رہتی ہے۔

النُّمْلَةُ: حوض کا بقیہ پانی۔ فرس دُو نُمْلَةٍ۔
بہت حرکت کرنے والا گھوڑا۔

النُّمْلَةُ - جَفَلَى -

النَّمْلَانِ - کسی چیز کے اوپر سے جھانکنا۔

انیمال چفخور

النَّمِيلَةُ: جفلى -

الْأُمَمَةُ وَالْأُمَمَةُ وَالْأُمَمَةُ

والأُمَمَةُ وَالْأُمَمَةُ وَالْأُمَمَةُ وَ

الإِمْعَلَةُ: سرانشت بعض کے نزدیک

اسی کا اوپر پورا۔ سحر۔ انا میں و
اگر آویں یہ تیرا شالہ فیت

النَّمْلَ وَالنَّمْلَةَ - مِنَ النَّسَاءِ - اَبْك

الْمُنْهَبِ - گھوڑ دوڑ میں سبقت لے جانے والا گھوڑا۔

الْمُنْهَبِ - لوٹ - لوٹنے کی جگہ۔

الْمُنْهَبِ - زمین یا ریت کے ابھرے ہوئے مقامات۔

بعض کے نزدیک ٹیلوں کے درمیان کے گڑھے۔ واحد تھَبْرَةٌ وَ تَهْبُوسٌ وَ تَهْبُورَةٌ۔

الْمُنْهَبِ - تھہر - جہنم۔

الْمُنْهَبِ - لمبی دلی عورت یا وہ جو ہلاکت کے قریب ہو۔

تَهْبِيلٌ - الرَّجُلُ - عمر رسیدہ ہونا۔ لنگڑا ہونا۔

الْمُنْهَبِ - عمر رسیدہ۔

الْمُنْهَبِ - بوجھل چال۔ بوٹی اوٹنی۔

تَهْتٌ (رض) تھاتا وَ تَهْتٌ - شیر کا دھاڑنا۔

گدھے کا رینگنا۔ آدمی کا رونا۔

النَّهْتِ - نا - حلق۔

النَّهْتِ - رینگنے والا۔ وَالْمُنْهَبِ - شیر۔

تَهْتٌ - فَلَانٌ عَلَيْنَا - جھوٹ بولنا۔

تَهْتٌ (رض) وَ تَهْتٌ تَهْتًا - الرَّجُلُ - ہانپنا۔

تَهْتٌ (رض) تَهْتًا - الثَّوْبُ - کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ صفت تَهْتٌ۔

تَهْتٌ (رض) تَهْتًا - الثَّوْبُ - کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔

ظاہر کرنا۔ الطَّرِيقُ - راستہ چلنا۔

تَهْتٌ (رض) تَهْتًا - الثَّوْبُ - کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔

الْمُنْهَبِ - الرَّجُلُ - چلنا یا واضح راستہ تلاش کرنا۔ الطَّرِيقُ - راستہ کو ظاہر کرنا۔

الْمُنْهَبِ - الطَّرِيقُ - راستہ کا واضح ہونا

فَلَانٌ سَبِيلٌ فَلَانٍ - وہ فلاں کے مسلک پر چلا۔ اس کا پیرو ہوا۔

الْمُنْهَبِ - واضح راستہ۔

تَهْتٌ - الْبَلَاغَةُ - بلاغت کا واضح طریقہ۔

حضرت علیؑ کے خطبات و نصائح کا مجموعہ۔

الْمُنْهَبِ - الْبَلَاغَةُ - ہاتپنا۔

الْمُنْهَبِ - الْبَلَاغَةُ - ہاتپنا۔

الْمُنْهَبِ - الْبَلَاغَةُ - ہاتپنا۔

الْمُنْهَبِ - الْبَلَاغَةُ - ہاتپنا۔

الْمُنْهَبِ - الْبَلَاغَةُ - ہاتپنا۔

الْمُنْهَبِ - الْبَلَاغَةُ - ہاتپنا۔

الْمُنْهَبِ - الْبَلَاغَةُ - ہاتپنا۔

الْمُنْهَبِ - الْبَلَاغَةُ - ہاتپنا۔

الْمُنْهَبِ - الْبَلَاغَةُ - ہاتپنا۔

الْمُنْهَبِ - الْبَلَاغَةُ - ہاتپنا۔

الْمُنْهَبِ - الْبَلَاغَةُ - ہاتپنا۔

الْمُنْهَبِ - الْبَلَاغَةُ - ہاتپنا۔

تَنَاهَدَ الْقَوْمُ الشَّيْءَ - آپس میں کسی چیز کی لین دین کرنا۔ تَنَاهَدُوا

فِي الْحَوْبِ - لڑائی میں ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔

لَسْتُ تَهْدَا - لڑائی پر اکسانا۔

النَّهْدُ - نا - جر۔ تَهْدَاؤُ وَ تَهْدَاؤُ - اٹھ ہوئے پستانوں والی عورت۔ جر۔ تَوَاهِدُ۔

النَّهْدُ - بَشِيرٌ - غلام تَا هِدٌ - بلوغ کے قریب پہنچنے والا لڑکا۔

النَّهْدُ - مقدار - اندازہ۔

النَّهْدُ - مم - بلند چیز۔ بَشِيرٌ شَرِيفٌ آدمی۔ مضبوط عمدہ گھوڑا۔ مکہ - پستان۔ جر۔ تَهْدُودُ۔

النَّهْدُ - برابر کا حصہ۔ جو سفر کے ساتھی خرچ کے لیے جمع کریں۔

النَّهْدُ - بَلَدٌ رِيتٌ کا ٹیلہ۔ حَوْضٌ او اِنَاءٌ تَهْدَانِ - بھرا ہوا حوض یا برتن جو چھلکے نہیں۔

النَّهْدُ - گاڑھا مکھن۔

النَّهْدُ - گاڑھا مکھن۔

النَّهْدُ - الیہ - قصد کیا ہوا۔

النَّهْدُ - مہم - مخلصیت۔

تَهْدَرُ (ف) تَهْدَرًا - الدَّمُ - خون کا زور سے بہنا۔ الماءُ - پانی کا زمین پر بہ کر اپنے لیے نہر بنالینا۔ التَّهْدَرُ - نہر کھود کر جاری کرنا۔ السَّائِلُ - سائل کو جھڑپنا۔

(و) تَهْدَرُ (س) تَهْدَرًا - الْحَافِرُ - کھود کر پانی تک پہنچ جانا۔

تَهْدَرُ - التَّهْدَرُ - نہر کو وسیع کرنا۔ نیزہ کے زخم کے لیے بھی آتا ہے۔ الدَّمُ - خون بہانا۔

الدَّمُ - خون کا بہنا۔ التَّهْدَرُ - رگ کا خون نہر کرنا۔ فَلَانٌ - بھلائی نہ پانا۔

فِي الْعَدُوِّ - دوڑنے میں سست ہونا۔ تَاخِرٌ کرنا۔ الرَّجُلُ - دن کرنا۔ التَّهْدَرُ - پیٹ چلنا۔ الْحَافِرُ - کھودنے والے



کے لیے کھڑا ہونا۔

اِسْتَهْضَہُ لَکَذَا۔ کسی کام کے لیے اٹھانا۔

النَّاهِضُ۔ فا۔ اڑنے کے قابل ہوزہ۔ جیست

مزدور۔ گھوڑے کے بازو کے اوپر کا گوشت

مَكَانُ نَاهِضٍ۔ بلند جگہ۔

نَاهِضَةُ الرَّجُلِ۔ انسان کے باپ کی اولاد اور

اس کے خادم وغیرہ۔ جہ۔ نَوَاهِضُ۔

النَّهَامُ۔ مِنَ الطُّرُقِ۔ دشوار راستے۔

النَّهَضُ۔ مِم۔ اونٹ کے منڈھے اور کندھے

کے مہربان کا حصہ۔ نَا النَّصَانِ۔ سخت

زمین۔

النَّهْضَةُ۔ طاق۔ قابلیت۔ زمین کی چڑھائی

جہ۔ تھکنا۔

تَهْطَرُ رَفَّ تَهْطًا۔ بالذبح۔ نیزے سے مارنا۔

تَهْطَرُ رَفَّ تَهْطًا۔ الرَّجُلُ۔ حیران ہونا۔

تَهْقَرُ رَفَّ رَفَّ، وَتَهْقَرُ رَفَّ، تَهْقَرًا وَ

تَهْقَرًا وَتَهْقَرًا وَتَهْقَرًا۔ الْحِمَارُ۔

گدھے کا رنگنا۔ صفت (نَاہِق)

النَّاهِقَانِ۔ گھردار جانور کے جڑے کی دو

ابھری ہوئی ہڈیاں جن پر سے آنسو بہتے

ہیں۔ نَوَاهِقٌ۔ گدھے کا گلا۔

النَّهَقُ۔ پزندہ کی ایک قسم۔ (وَالنَّهَقُ) ایک

پودا۔ مفرد تَهْقَعَةٌ وَتَهْقَعَةٌ۔

تَهْلَكَةُ رَفَّ، تَهْلَكًا وَتَهْلَكَةً۔ غلاب آنا۔ کپڑے

کو پن کر بوسیدہ کرنا۔ مِنَ الطَّعَامِ

وَفِيهِ۔ بہت کھانا کھانا عَزَمَ فُلَانٌ

بہت آبروریزی کرنا۔ انْصَرَعَ بَحْنُ كَا

تَام دودھ دودھ لینا۔ الْإِبِلُ مَاءَ

الْحَوْضِ۔ اونٹ حوض کا تام پانی چٹ

کر گئے۔ الْحَبْلُ فَلَانًا۔ بچار نے فلاں

کو دُبلّا کر دیا۔

تَهْلَكَةُ رَفَّ، تَهْلَكًا وَتَهْلَكَةً۔ سخت سزا دینا۔

تَهْلَكًا وَتَهْلَكًا وَتَهْلَكَةً وَتَهْلَكَةً۔ الْحَبْلُ

فَلَانًا۔ بچار کا کسی کو دُبلّا کر دینا۔ (تَهْلَكًا)

فَلَانِ الشَّرَابِ۔ ختم کرنا۔

تَهْلَكُ تَهْلَكًا۔ لاغر اور دُبلّا ہونا۔ صفت

مُتَهْلِكٌ۔

تَهْلَكُ رَفَّ، تَهْلَكَةً۔ دلیر و بہادر ہونا۔

أَتَهْلَكُ۔ سخت سزا دینا۔

رَتَهْلَكَةُ الْحَبْلِ۔ لاغر و دُبلّا کرنا۔

رَتَهْلَكُ۔ فُلَانِ الْحَرَامَةِ۔ اپنے چال چلن کو

خراب کرنا۔ الشَّيْءُ۔ بے عزتی کرنا۔

فَلَانًا آبروریزی کرنا۔

النَّاهِلُ۔ فا۔ ہر چیز میں مبالغہ کرنے والا۔

النَّهْلُ۔ مِم۔ بحر جز کے دثلت حذف کرنا

بقیہ کو منھوک کہتے ہیں۔

النَّهْلَةُ۔ بیماری کی کمزوری

النَّهْلُ۔ بہادر۔ دلیر۔

النَّهْلُ۔ تمام چیزوں میں مبالغہ کرنے والا۔

بہادر، مضبوط اونٹ۔ تَشْتِيرُ رُأْسَ اِجْجَ

خلق والا۔

تَهْلَتُ رَفَّ، تَهْلًا وَتَهْلًا۔ الْإِبِلُ۔ پہلی بار

کابینا۔ پیاسا ہونا۔

أَتَهْلُ الْإِبِلِ۔ اونٹ کو پہل بار پانی پلانا۔

النَّهْلُ۔ قوم کے اونٹوں کا پہل بار پانی پینا

أَتَهْلُو أَرْعَہُمْ۔ کھیتی کو پہلی دفعہ سیراب کرنا

أَتَهْلُ فُلَانًا غَضَبًا۔ کرنا۔

النَّاهِلُ۔ فا۔ سیراب۔ پیاسا جہ۔ تَهْلُ وَتَهْلُ

وَتَهْلُ وَتَهْلَةً وَتَهْلَةً وَتَهْلَةً۔

النَّاهِلُ۔ مَوْنُ النَّاهِلِ جِشْمَہ کی طرف

آنے جانے والے۔ جہ تَهْلُ وَتَوَاهِلُ۔

النَّوَاهِلُ۔ بھوکے اونٹ۔

النَّهْلُ۔ مِم۔ پہلی سیرابی۔ وہ خوراک جو

کھائی جائے۔

النَّهْلَانِ۔ پینے والا۔ سیراب۔ پیاسا۔ تَهْلَا

ہوا۔ جہ۔ تَهْلُ۔

النَّهْلُ۔ بہت غصہ دلانے والا۔ اوجھاٹیلہ

جس کی ریت گرتی رہے۔ بہت فیاض

قبر۔ مقبرہ۔

النَّهْلُ۔ گھاٹ، چشمہ۔ پیانا۔ راستہ پر پانی

پینے کی جگہ۔ جہ۔ مَتَاهِلُ۔

تَهْلُ رَفَّ، تَهْلًا وَتَهْلًا وَتَهْلًا۔ الْإِبِلُ

اونٹوں کو جلا کر سختی سے ہانکنا۔

تَهْلُ رَفَّ، تَهْلًا وَتَهْلًا۔ بہت کھانا۔

تَهْلُ رَفَّ، تَهْلًا وَتَهْلًا۔ الْإِبِلُ۔ ہاتھی کا

چنگھاڑنا۔

تَهْلُ رَفَّ، وَتَهْلُ تَهْلًا وَتَهْلًا۔ فِي الْإِبِلِ۔

کھانے میں حریص ہونا۔ فُلَانٌ فِي الشَّيْءِ۔

مشتاق ہونا۔ نَاهِضَةٌ مِّنْهَاہِمَا۔ ساتھ

مل کر کھنڈا اسانس بھڑنا۔

رَتَهْلُ۔ جھڑک کھانا۔

النَّاهِلُ۔ فا۔ چلانے والا۔

النَّهَامُ۔ لَوَار۔ بڑھئی۔

النَّهَامُ۔ اُو۔ راہب۔ جہ۔ تَهْلُ۔

النَّهَامُ۔ لَوَار۔ بڑھئی۔

النَّهَامُ وَالنَّهَامُ۔ راہب۔ ہموار راستہ۔

النَّهَامُ وَالنَّهَامُ۔ حریص۔ پیٹو۔

النَّهَامُ۔ مِم۔ حاجت۔ سخت خواہش۔

النَّهَامُ۔ شیر واضح راستہ کا بیج۔

النَّهَامُ۔ مَوْنُ النَّهَامِ۔ شیر۔

النَّهَامُ۔ طَوْنُ پُرسدھی ہوئی اونٹنی۔ جہ مَتَاهِلُ

النَّهَامُ۔ مِم۔ مفعول حریص مشتاق و فریفتہ۔

تَهْلُ رَفَّ، تَهْلًا وَتَهْلًا۔ رُکنا۔ ڈانٹنا۔

تَهْلُ رَفَّ، تَهْلًا وَتَهْلًا۔ رُک جانا۔

النَّهْلُ۔ باریک بناوٹ کا کپڑا۔

تَهْلُ رَفَّ، تَهْلًا وَتَهْلًا۔ تَهْلًا وَتَهْلًا۔ تَهْلًا وَتَهْلًا۔

رُکنا۔ منع کرنا۔ صفت مذکر (نَاہِ) صفت

مَوْنُ رَنَاهِيَّة) جس چیز سے روکا جائے

دہ مٹھی عنہ ہے۔ اسم النہیۃ۔


تَهْلُ رَفَّ، تَهْلًا وَتَهْلًا۔ اَللّٰہُ عَنْ کَذَا۔ اللہ کا کسی چیز کو

حرام کرنا۔

تَهْلُ رَفَّ، تَهْلًا وَتَهْلًا۔ اَللّٰہُ الْخَبْرُ جِشْمَہ تَهْلًا

مِنَ رَجُلٍ وَتَهْلُ رَفَّ، تَهْلًا وَتَهْلًا۔ وہ

ایک آدمی یا زیادہ تیرے لیے کافی ہیں۔



تَحْتَك مِنْ امْرَأَةٍ۔ وہ عورت تیرے لیے کافی ہے۔
 نَهَى نَهْيَ نَهْيٍ۔ عن الحَاجَةِ۔ حاجت چھوڑ دینا
 نَهَوْ يَنْهَوُ نَهَاوَةً۔ بہت دہین ہونا۔ کامل العقل ہونا۔
 نَهَى۔ الشَّيْءَ جِزًا نہایت تک پہنچنا۔ إِلَيْهِ الْحَبْرُ۔ خبر کسی تک پہنچانا۔
 أَهَى أَهَاءً۔ الشَّيْءَ پہنچانا۔ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ۔ اطلاع دینا۔ أَهَى الرَّجُلُ مِنَ الْحُكْمِ۔ اکتفا کرنا اور آسودہ ہونا۔
 تَنَاهَى تَنَاهِيًا۔ عَنِ الشَّيْءِ رُكْنًا۔ الْقَوْمَ بعض کا بعض کو روکنا۔ الشَّيْءُ انتہا کو پہنچنا۔ الْمَاءُ پانی کا تالاب میں ٹھہرنا۔
 لُتَّهَى لُتْهَاءً۔ الشَّيْءُ نہایت تک پہنچنا۔ عَنِ الشَّيْءِ رُكْنًا۔ إِلَيْكَ الْحَابِرُ پہنچنا۔ بِفِلَانٍ إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا۔ پہنچنا۔
 اسْتَهَاكَ اسْتِهَاءً۔ بَارِسْنِي کے لیے کہنا۔
 اِنْتَاهَى۔ فَا۔ جِزًا۔ پھٹا ہوا۔ سیراب کتے ہیں ناھیک بَزِيدٌ فَارِسًا۔ نید تمھارے لیے شہسوار کافی ہے۔ تعجب اور استفہام کے موقع پر بولتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں۔ هَذَا رَجُلٌ نَاهِيك مِنْ رَجُلٍ۔ یہ آدمی تمھارے لیے فلاں آدمی سے کافی ہے۔ ج۔ کُوا۔
 اِنْتَهَاو۔ جِزًا غایت و آخر۔ مِنَ النِّهَارِ وَالْمَاءِ۔ دن اور پانی کی چڑھائی۔ اندازہ۔ مقدار۔ کہتے ہیں۔ هُوَ نَهَاءٌ مِثْلًا۔ وہ تلو کے قریب ہیں۔
 النِّهَاءُ۔ پانی کی چڑھائی۔ شیشہ کی صراحی۔ اِنْتِهَائِيَّة۔ چیز کی غایت و آخری حد یا درجہ۔ ج۔ رَهَائَات۔ رَهَائَاتُ الدَّارِ۔ گھر کے حدود۔
 النُّهَى۔ مِم۔ نحو یوں کے نزدیک طلب

ترک فعل۔ مانعت۔
 النُّهَى وَالنُّهْيُ۔ تالاب۔ ج۔ اَنْهَدَا نَهَاءً دُحِّي وَنَهَاءً۔
 النُّهْيُ وَالنُّهْيُ۔ کامل العقل۔ ج۔ نَهْوُنْ وَنَهْوُنْ۔
 اِنْتَهَى شَيْئًا۔
 النُّهَى۔ اِنْتَهِيَّة کی جمع۔ عقل۔ اِنْتَهِيَّة۔ اسم ہے نبی سے چیز کی غایت اور اس کا آخر۔ میخ کے سرے کا سوراخ عقل۔ ج۔ نَهَى۔ نَاقَةُ نَهْيَةٍ۔
 انتہائی کوئی اونٹنی۔
 النُّهْوُ۔ منع کرنے والا۔ الْأُمُور کا ہند یعنی امر کرنے والا۔
 النُّهْيُ۔ انتہا درجہ کا موٹا۔ رَجُلٌ نَهْيٌ۔ کامل العقل آدمی۔ ج۔ اِنْتِهَاءً۔ اِنْتِهَاءً وَالنُّهْيَةَ۔ مِنَ الْوَادِي۔ وادی کا آخری کنارہ۔ ج۔ تَنَاهَا۔ اِنْتِهَاءً۔ سیلاب کی روک۔ مُنَاهِي الشُّرْعِ۔ شریعت کے منوعات۔ اِنْتِهَاءً۔ نہایت عقل۔ رَجُلٌ مَنَهَاةٌ۔ عقل مندا بھی رائے والا آدمی۔ اِنْتَهَى۔ نہایت۔
 نَاءٌ يَنْوُو نَوَاءً أَدْنَوَاءً۔ مشقت و تکلیف سے اٹھنا۔ کرنا۔ بِالْحَمْلِ۔ بوجھ کو مشکل سے اٹھانا۔ بِالْحَمْلِ۔ بوجھ کرنا۔ جھکانا۔ النُّجْمُ۔ مغرب میں ایک ستارہ کا غروب ہونا اور اسی وقت دوسرے ستارے کا مشرق میں طلوع کرنا۔
 نَاوَاهُ مُنَادَاةً وَنَوَاءً۔ فخر کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ دشمنی کرنا۔
 أَنْعَاهُ أَنْعَاءً۔ الْحَمْلُ۔ بوجھ کرنا۔ جھکانا اِسْتِنَاءً اِسْتِنَاءً۔ النُّجْمُ۔ یعنی نَاء۔ فَلَانًا کسی سے عطیہ مانگنا۔
 النَّوْعُ مِم۔ ستارہ جو غروب کر رہا ہو اور دوسرا

اس کا مقابل طلوع کر رہا ہو۔ بَارِسْ نَحْشَ ج۔ اَنْوَاءُ وَنَوَانْ وَنَوَاءً۔
 النَّوْءُ۔ نباتات۔ سبزی۔
 اَنْوَاءُ نَجْمٍ کے علم میں زیادہ ہوشیار۔
 الْمُسْتَنَاءُ۔ عطیہ مانگنا ہوا۔
 نَابُ يُوْبُ نَوْبًا وَمَنَابًا وَنِيَابًا۔ فِي الْأَمْرِ عَنْ زَيْدٍ۔ قائم مقام ہونا۔
 نَابٌ ہونا۔ صفت (ناب) جس میں نیابت کی جائے وہ منوب فیہ۔ جس کی نیابت کی جائے وہ منوب عنہ۔
 اَلْيَوْمِ۔ بار بار واپس آنا۔ إِلَى اللَّهِ۔ تَوْبَةً کرنا۔ فَلَانٌ۔ فلاں نے خدا کی اطاعت کی۔
 نَابُ يُوْبُ نَوْبًا وَنَوِيَّةً۔ فَلَانًا أَمْرٌ كَوْنِي أَمْرٍ بِشِ آنا۔
 نَوَابَةٌ مُنَادَاةً۔ سزا دینا۔ باری باری کرنا۔ تَوْبَ فَلَانٌ۔ باری مقرر کیا جانا۔
 أَنْابَ۔ زَيْدٌ عَنْهُ فَرَكِيلاً فِي كَذَا۔ قائم مقام بنانا۔ وکیل کرنا۔ زَيْدٌ مُنْيَبٌ۔ وکیل۔ مُنَابٌ۔ قائم مقامی کا امر۔ مناب فیہ۔ اَلْيَوْمِ۔ باری باری واپس ہونا۔ إِلَى اللَّهِ۔ متوجہ ہونا۔ تَوْبَةً کرنا۔
 تَنَافَوْا يُوْنُ تَنَافًا وَتَنَافًا۔ اَلْيَوْمِ۔ اَقْسِمُ كُنْزِي بِسِ بَانْتِنَا۔ الامْرُ۔ باری باری کرنا۔ تَنَادَبَتْهُ الْخُطُوبُ۔ مصائب زمانہ کا پیش آنا۔
 اِنْتَابَ يَنْتَابُ نَتِيَابًا۔ پے درپے آنا۔ فَلَانًا أَمْرٌ۔ کسی کو کوئی امر پیش آنا۔ زَيْدٌ عَمْرًا۔ قصد کرنا۔
 اِسْتِنَابَةً اِسْتِنَابَةً۔ نَابٌ ہونے کیلئے کہنا۔ نَابٌ مانگنا۔ نَابٌ مقرر کرنا۔
 النَّابِثُ۔ فَا۔ قائم مقام۔ ج۔ نَوْبٌ وَنَوَابٌ النَّابِثَةُ۔ مَوْنُ النَّابِثِ۔ آفت مصیبت ج۔ نَابِثَاتٌ وَنَوَابِثُ۔ النَّوَابِثُ



حوادث غراہ خیر ہوں یا شر۔ نوایب
المرعیۃ۔ پلوں اور مٹروں کی درستی کے
لیے شاہی ٹیکس۔ الحق النایبۃ۔
روز آنے والا بخار۔
النبیۃ۔ مع۔ نیابت۔ باری۔
التوب۔ ریگستان کی منزل۔ ایک دن رات
کی منزل۔ نزدیکی۔ قوت۔
التوب۔ نوبہ کا باشندہ۔ واحد نوبی۔ شد
کی کمی۔ واحد نایب۔
التوبۃ۔ مع۔ فرصت۔ دولت۔ آدمیوں کا
گروہ۔ باری۔ وقت۔ دفعہ۔ موقع۔ ج
توب۔ النوبۃ۔ اطباء کے نزدیک
بخار آنے کا وقت۔
التوبۃ۔ آفت۔ مصیبت۔ حادثہ۔ ج۔ نوب۔
المناب۔ مع۔ پانی کی طرف جانے والا راستہ
قائم مقامی۔
المینیب۔ فاء۔ بہت بارش۔ عمدہ بہار۔
نات ینوت نوتا۔ کمزوری سے بھگنا۔
النوتی۔ جہازران۔ ملاح۔ ج۔ نواتی۔
تاجہ ینووج نوجا۔ منافقت کرنا۔ فریب
دینا۔
النوۃ۔ گولا۔ ج۔ نوجہ۔
تاحت تنوحر توحد نواحد نیاحا و
نیاحۃ وصاحا۔ المرأة المیت
و علی المیت۔ عورت کا مردہ پر نوجہ کرنا
بین کرنا۔ وایلا کرنا۔ اسم نیاحۃ۔
الحمامۃ۔ فاختہ کا کوکر کرنا۔ صفت
تایحۃ ونواحۃ۔
تآحدہ مناحۃ۔ مقابلہ کرنا۔
تنوحر تنووحا۔ الشیء۔ جھوٹنا۔
تنادح تنادحا۔ الجیلان۔ پہاڑوں کا
آنے سامنے واقع ہونا۔ تنادحت
الیاح۔ ہواؤں کا شدت سے چلنا۔
ہوا کبھی پروانی کبھی شمالی اور کبھی
جنوبی چلنا۔

استناحت استناحتۃ۔ المرأة۔ عورت
کارونا۔ استناحت الذئب۔ بھیڑیے
کا بھونکنا۔ الرجل۔ روکر لانا۔
فلانا۔ رلانا۔
الناتحتۃ۔ اسم فاعل۔ مونٹ کے لیے۔ ج۔
نوح والنواح ونوح و نواحر و
ناتحات۔
النوح۔ مع۔ جمع ہو کر رونے والی عورتیں۔
النوحۃ۔ میت پرین۔
النواح۔ اسم مبالغہ۔ مونٹ نواحۃ۔ قمری
کی طرح کا ایک پرندہ۔
النبحۃ۔ مقابلہ۔
النماحۃ۔ رونے کی جگہ۔ ج۔ متاحات و
متاوح۔ النماحۃ۔ عورتیں جو مصیبت
پر رونے کے لیے جمع ہوں۔
نوسۃ تنوینا۔ اللہ الارض۔ خدا تعالیٰ
کا زمین کو ہوا کرنا۔ بچھانا۔
اناحۃ اناحۃ۔ الجمل۔ اونٹ کو بٹھانا
۔ فلان بالماکان کسی جگہ اقامت
کرنا۔ البلاؤ او الذل بفلان۔
مصیبت کا کسی پر نازل ہونا۔
استناحت استناحتۃ۔ الجمل۔ اونٹ
کا بیٹھنا۔
الناتحتۃ۔ دور کی زمین۔
النوحۃ۔ اقامت۔
النماحۃ۔ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ مناحۃ
سوی۔ غیر پسندیدہ جگہ۔
المینخ۔ فاء۔ شیر۔
ناد ینود نودا و نودا و نودا انا۔ نیند
سے جھونکس کھانا۔
تنود تنودا۔ العصن۔ ٹہنی کا ہلنا۔
نودل نودلۃ۔ الرجل۔ بڑھا پے سے
کا ہلنا۔
النودل۔ پستان۔
النودول۔ کانپتا ہوا بوڑھا۔

نار ینور نوراً و نیاراً۔ روشن ہونا۔
البعیر۔ اونٹ کو داغنا۔ ابقوم۔
شکست کھانا۔ النار من بعیر۔
آگ کو دور سے دیکھنا۔
نارت النار نوراً و نوراً و نوراً۔
عورت کا شبہ اور تمہت سے بچنا۔
الفتنۃ۔ فتنہ کا پیدا ہونا اور پھیلنا۔
صفت ناکرۃ۔
نوس تنویراً۔ الشیء۔ روشن ہونا۔
ایمضباح۔ روشن کرنا۔ علی فلان
کسی پر کوئی امر شبہ کرنا۔ التمر۔
کھجوریں گٹھل پیدا ہونا۔ الصبح۔ صبح
کا چلنا۔ نمودار ہونا۔ الشجر۔
درخت کا شکوفہ نکالنا۔ بفلان۔ روشنی
دکھانا۔ الزرح۔ کھیتی کا پکنا۔
النراۃ۔ عورت کو شبہ سے نفرت دلانا۔
نارۃ منادۃ۔ ایک دوسرے کو گالی
دینا۔
انار انارۃ۔ الشیء۔ چکنا۔ روشن ہونا۔
ظاہر ہونا۔ خوبصورت ہونا۔ البیت۔
گھر کو روشن کرنا۔ المساکۃ۔ مسد
کو واضح کرنا۔ اللہ بڑھانا۔ اللہ
تعالیٰ کا کسی کو دلیل سمجھانا۔ الشجر۔
درخت کا کلی نکالنا۔
انور انواراً۔ الشیء۔ ظاہر ہونا۔
تنور تنورا۔ امکان۔ مکان کا روشن
ہونا۔ الرجل۔ بال اڑانے کا پودر
ملنا۔ القوم۔ قوم کا شکست کھانا۔
النار من بعیر۔ آگ کو دور سے
دیکھنا۔
انار انیاراً و انتور انواراً۔ بال
اڑانے کا پودر ملنا۔
استنار استنارۃ۔ البیت۔ روشن ہونا۔
۔ بہ۔ کسی سے روشنی کی مدد مانگنا۔ علیہ
کا میاب ہونا۔ غالب آنا۔ المرأة۔



شک و شبہ سے نفرت دلانا۔
 النَّارُ - اسم فاعل مؤنث کے لیے۔ دشمنی،
 بغض و کینہ۔ جہ۔ نَوَارٌ۔
 النَّوُورُ وَالنُّورُ - کاجل۔ ایک کنکری جس
 کو پیس کر مسوڑھے پر لگاتے ہیں۔ جہ
 نُورِ اصل نُور۔
 النَّوَارُ - مہم۔ شک و شبہ سے نفرت کرنے
 والی عورت۔ ساندے سے علیحدہ رہنے والی
 گائے۔ جہ۔ نَوَارٌ۔
 النَّوَارُ - شک و شبہ سے دوری۔
 النَّارُ - آگ۔ کلمہ مؤنث ہے کبھی مذکر بھی
 مستعمل ہوتا ہے۔ تفسیر نُورِ آگ۔ جہ
 النَّوُورُ وَنَبَاتٌ وَنَبَاتٌ - النار۔ داغ
 رائے جسم۔ جَبَلُ النَّارِ - آتش فشاں
 بہاڑ۔ بَنُو النَّارِ - تین شاعر۔ اَوْقَدَ
 نَارَ الْحَرْبِ - اس نے لڑائی کی آگ
 بھڑکائی۔ رَكَتٌ مَعْنَى بَنَاتٍ وَنَبَاتٍ
 فلاں سے مشورہ نہ لو۔ لَا تَتَرَاوِی
 نَارَهُمَا۔ وہ دونوں ایک جگہ جمع
 نہیں ہوتے۔ نَارُ التَّحْوِيلِ - خوف
 میں ڈالنے کی آگ۔ عربوں میں یہ ایک
 رسم تھی کہ جب معاہدہ کرتے۔ آگ جلا
 کر اس میں نمک ڈالتے۔ نمک جب
 چٹکتا تو اس کو اپنے معاہدہ کی مضبوطی
 جانتے۔ نَارُ الْيَقُولِ - ممان کی آگ۔
 عرب رات کو کسی بلند جگہ پر آگ روشن
 کرتے اور مقصد یہ ہوتا کہ گزرنے والا
 مسافر اس کو دیکھ کر اس کا رخ کرے
 یہ آگ جس قدر بلند جگہ پر روشن کی
 جاتی اسی قدر قابلِ فخر سمجھی جاتی۔
 نَارُ الْإِذْنَارِ - جنگ کا اعلان کرنے
 کے لیے یا جنگ کے لیے لوگوں کو جمع
 کرنے کی خاطر آگ جلاتے۔ آگ دیکھ
 کر سب سمٹ آتے۔ نَارُ الْإِسْتِغْفَارِ
 زیادتی ظاہر کرنے والی آگ۔ عرب

جب کسی سے لڑنے جاتے اور پڑاؤ
 ڈالتے تو کثرت آگ جلاتے۔ اور
 اسی طرح کثرت سے جانور ذبح کرتے
 تاکہ ان دونوں چیزوں کی کثرت سے
 ان کی تعداد کی زیادتی کا اندازہ لگایا
 جاسکے۔
 النَّوَارُ - مہم۔ کلی۔ واحد۔ نَوْرَةٌ - جہ۔
 النَّوَارُ۔
 النَّوُورُ - روشنی۔ جہ۔ اَنْوَارٌ وَنَبَاتٌ۔
 النَّوُورُ - وہ جو چیزوں کو ظاہر کرے۔ نباتات
 کی لمبائی اور خوشنما۔ جہ۔ نَوْرَةٌ - داغ
 النَّوُورُ وَالنُّورَةُ - ایک خانہ بدوش قوم جو
 ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکا میں
 پائی جاتی ہے۔
 النَّوُورِی - بد معاش۔ اُچکا۔
 النَّوُورَةُ - داغ۔ جسے کانچہ مال دور کرنے
 کا پودہ۔
 النَّوَارُ - بہت روشن۔
 النَّوَارُ - کلی۔ واحد نَوَارَةٌ - جہ۔ نَوَارٌ وَنَبَاتٌ۔
 النَّوَارُ - روشن کرنے والا۔
 النَّوَارَةُ - نونت۔ سببِ عبرتناک منزا۔
 فَلَانٌ ذُو نَبَاتٍ - فلاں آدمی دور
 اندیش ہے۔
 النَّوُورُ - اسم تفضیل ظاہر خوشنما۔
 النَّوَارُ - نور کی جگہ۔ راستہ کا نشان۔ دو
 حدوں کے درمیان کا نشان۔ ذُو
 النَّوَارِ - بادشاہ ابرہہ تَبَعُ بْنُ
 رَافِئِش۔
 النَّوَارُ - خوشنما چکنے والا۔
 النَّوَارَةُ - روشنی کی جگہ۔ روشنی کا منار۔
 اذان دینے کا منارہ۔ جہ۔ مَنَارٌ وَ
 مَنَارٌ۔
 نَوْرٌ جہ نَوْرٌ جہ - آنے جانے میں مختلف
 سخن چینی کے لیے آنا جانا۔
 النَّوْرُ - ہل کی چھالی۔ غلہ کا بننے کا آلہ۔

النَّوُورُ وَالنَّبَاتُ - فارسی سال کا پہلا
 روز۔ خوشی کا دن
 النَّوُورُ - بھونکر کے برابر یا اس سے کچھ بڑا
 ایک آبی پرندہ۔
 نَوْرٌ جہ تَنْوِيرٌ - کم کرنا۔
 نَاسٌ يَنْوُسُ نَوْسًا - الإِبِلُ۔ اونٹوں کو
 ہلکانا۔ نَوْسًا وَنَوْسًا، الشَّيْءُ۔
 چیز کا جھولنا۔
 نَوْسٌ - بالمكان تَنْوِيصًا - اقامت کرنا۔
 نَاسٌ رَاسًا سَتًا - الشَّيْءُ - حرکت دینا۔
 ہلانا۔
 تَنْوُسٌ - الغُصْنُ - شاخ کا ہوا سے ہلنا۔
 النَّوُورُ وَالنَّبَاتُ - دوس۔ نصاریٰ کا قبرستان
 جہ۔ نَوَارِيسُ - یا وہ پتھر کا تابوت
 جس میں میت رکھی جائے۔
 نَوَاسُ الْخُكُوفِ - کھڑکی کا جالا۔ نَوَاسُ
 دُخَانٍ - دھوئیں کا جالا۔
 النَّاسُ - لوگ۔ واحد رَاسًا - تصغیر
 نَوَاسُ۔
 النَّوَاسُ - چکنے والا۔
 النَّوَسَاتُ - چوٹیاں۔ زلفیں۔
 النَّوُورُ - سیاہ کنارہ والا چھوٹا رہ۔
 نَاشٌ يَنْوُسُ نَوْسًا - الشَّيْءُ - چیز کو
 پکڑنا۔ طلب کرنا۔ فَلَانٌ - چلنا۔
 الْبَعِيرُ تَبِيرًا سَے اٹھنا۔ فَلَانًا - کسی
 کو سراوردا اٹھی سے پکڑنا۔ نَبَاتًا
 خَيْرًا - بھلائی پہنچانا۔
 نَوَاشُوهُمْ مَنَادَشَةً - فِي الْقِتَالِ
 لڑائی میں حملہ کرنا۔ نَوَاشُ فَلَانٍ
 الشَّيْءُ - ہلانا۔
 تَنَادَشُ - الشَّيْءُ - چیز کو پکڑنا۔ تَنَادَشُوا
 بِالرِّمَاحِ - نیزہ بازی کرنا۔
 رَنَاتًا شَا اِنْتِيَا شَا - پکڑنا۔ نکانا۔
 النَّوُورُ - قوی۔ رَجُلٌ نَوُورٌ - مضبوط
 آدمی۔



ناص يَنْوُصُ نَوْصًا وَمَنْصَا وَمَنْبِيصًا -
عَنْ قَوْنِهِ - اپنے مقابل سے بھاگنا
بچنا - جدا ہونا - فلاؤنا - کسی کے
ہاتھ سے نکل جانا - سبقت لے جانا -
الْبِيصُ - اٹھنا - الشَّيْءُ - چیز کو کھینچنا -
لِلْحَوْكَةِ - تیار ہونا - غلہ - پیچھے
ہٹنا - ر - مَنْصَا وَنَوِيصًا وَ
نِيَا صًا وَنِيَا صَةً وَنَوْصًا وَنَوْصَانًا
الرَّجُلُ - ہلنا -
نَاوَصَهُ مَنَاوَصَةً - باہم حملہ کرنا -
أَنَا صَهُ - اِنَا صَةً - ارادہ کرنا -
إِنْتَا صَتْ إِنْتِيَا صًا - الشَّمْسُ - سورج
کا ڈوبنا -
إِسْتِنَا صَةً إِسْتِنَا صَةً - حرکت دینا -
ہلکا سمجھنا اور اپنی حاجت کے لیے
لے جانا - گھوڑے کا چلنے کے لیے حرکت
کرنا - سر بلند کرنا - پیچھے رہنا -
النَّوْصُ - مم - گور خر - سخاوت - ر - والنَّوْصُ
فرار - بھاگنا -
النَّوْصَةُ - پانی وغیرہ کا غسل مما بہ نَوِيصُ
اس میں کوئی طاقت یا حرکت نہیں -
الْمَنَاصُ - مم - جائے پناہ - بھاگنے کی جگہ
سخاوت -
نَاَصَ يَنْوُصُ نَوْصًا - شہروں میں پھرنا -
پیچھے ہٹنا - الشَّيْءُ - اکھاڑنے کی
کوشش کرنا - الماء - نکالنا - البرق
بجلی کا چمکنا - الشَّيْءُ - چیز کا حرکت کرنا
- الرَّجُلُ - بھاگ کر نجات پانا -
نَوَّصَ تَنْوِيصًا - الثَّوْبُ - بالَصَبْغِ -
کپڑا رنگنا -
أَنَا صَ إِنْأَا صَةً - مشقت کے آثار آنکھوں
سے نمایاں ہونا - النَّخْلُ - درخت
خروما کا پکی کھجوروں والا ہونا -
النَّوْصُ - مم - پانی کے نکلنے کی جگہ - وادی -
دونوں سرین کے درمیان کی بڑی - ج

أَنَوَاضَ وَأَنَادِيضَ -
الْأَنَوَاضُ وَالْأَنَادِيضُ - بلند جگہیں -
الْمَنَاضُ - جائے پناہ -
نَاَطَلَهُ يَنْوُطُهُ نَوَاطًا وَنِيَا طًا - ٹکانا -
نَاَطَتِ الدَّارُ - گھر کا دور ہونا -
نِيَطُ - بِهَ الشَّيْءُ - ملایا جانا - نَوَطَلَهُ - ٹکانا
أَنَا طَلَهُ إِنْأَا طَلَهُ - ٹکانا - رَأَيْتَا طًا
إِنْتِيَا طًا - ہلنا - الشَّيْءُ -
دور ہونا - الشَّيْءُ - بغیر مشورہ کے
اپنی رائے سے کاٹنا -
إِسْتِنَا طًا إِسْتِنَا طَةً - فَلَانًا بَعِيْرًا
کسی کو اونٹ زاد اٹھانے کے لیے دینا -
النَّايِطُ - پیٹھ کی اندرونی رگ - ر - و
النَّايِطَةُ - پوٹا -
أَنْبِيَا ط - مم - دل - مِنَ الْمَفَازَةِ - بیابان
کے راستہ کی دوری - قَطَعْتُ
نِيَا طَ الْبَنَدِ - میں نے شہر کو طے کیا
النِّيَا ط - ہر چیز ٹکانے کی جگہ - دل
کے متصل ایک موٹی رگ - مکر کی ایک
رگ - ج - أَنْوُطَةٌ وَنَوُطٌ -
النَّوُطُ - مم - جانور کے دونوں طرف کے
بوجھوں کے درمیان رکھا ہوا زائد بوجھ
ج - أَنْوَا طٌ وَنِيَا طٌ - محل سے لٹکی
ہوئی کھجوروں کی خرچی - النَّوُطَةُ -
پوٹا - اونٹ کے سینہ اور ران کی جڑ
میں درم - اونٹ کے پیٹ کے مملک
غدد - کینہ - سیلاب سے وہ بلند جگہ
جس کے نیچے میں درخت ہو اور دونوں
طرف سے درختوں سے خالی ہو - پانی
سے بلند جگہ -
النِّيْطُ - وہ کتواں جس کے کناروں سے
پانی بہتا ہو - درمیان -
النِّيْطَةُ - وہ اونٹ جو غلہ لانے کے لیے غلہ
لانے والوں کے ہمراہ بھیجا جائے -
التَّنَوُّاطُ - جو چیز ہودج کی زینت کے لیے

ٹکانی جائے -
التَّنَوُّطُ وَالتَّنَوُّطُ - وہ پزندہ جو اپنا گھونلا
شناخوں سے ٹکاتا ہے - بیا - النَّسَاطُ -
ٹکانے کی جگہ - دور کہتے ہیں - هَذَا
مِثْلُ مَنْطِ الثَّرِيَا - وہ مجھ سے اس قدر
دور ہے جس قدر ثریا - غَايَةُ
مُتَنَاطَةٌ - دور کی غایت -
النَّوُطُ - اسم مفعول - معلق -
نَاَحَ يَنْوُحُ نَوْحًا - الْغُصْنُ - بٹنی کا جھکنا
- الشَّيْءُ - رائج ہونا - الرَّجُلُ - کسی
کا پیسا ہونا - الْعُقَابُ - عقاب کا
کسی چیز پر سٹ پڑنا - فَلَانُ الشَّيْءِ -
طلب کرنا - الرَّجُلُ - بھوکا ہونا -
صِفَتُ نَاِيْعُ - ج - نِيَا ع -
نَوَّعَ تَنْوِيْعًا - الشَّيْءُ - کسی چیز کو قسموں
میں تقسیم کرنا - نَوَّعَتِ الرِّيحُ الشَّيْءَ
ہوا کا کسی چیز کو ہلانا - زَيْدُ الشَّيْءِ -
نیدرے چیز کو ٹکا کر لیتی ہوئی چھوڑا -
تَنْوَّعَ - الشَّيْءُ - چیز کا قسموں میں ہلنا -
جھولنا - الْغُصْنُ - ہلنا - فِي السَّيْرِ -
آگے بڑھنا -
إِسْتِنَاعَ إِسْتِنَاعَةً - الْغُصْنُ - شاخ
کا ہلنا - الرَّجُلُ - فِي السَّيْرِ - آگے
بڑھنا - بہت زمانہ رہنا -
النَّايْعُ - نا - پیسا - ج - نِيَا ع -
النَّايْعُ - جھکی ہوئی شاخ - ج - نَوَّايْعُ -
جَائِعُ نَائِعُ - ج - رَحِيْلُ نِيَا ع -
بھوک کی وجہ سے جھکا ہوا -
النَّوَّعُ - مم - قسم - ج - أَنْوَا ع -
النَّوَّعُ - پیاس -
النَّوَّعَاتُ - شاخ کی حرکت -
النَّوَّعَةُ - تروتازہ پھل - مَكَانٌ مُتَنَوِّعٌ -
دور کی جگہ -
النَّوَّعُ - طریقہ - طرز -
نَاَفَ يَنْوُفُ نَوَفًا - الشَّيْءُ - بلند ہونا - عَلَيَّ



الشیء نمایاں ہونا۔ البیِّنُ اونٹ کا
لبا اور اونچا ہونا۔ البیِّنُ مِنَ الشَّيْءِ
بچہ کا پستان چوسنا۔

نَبِیْفٌ تَبِیْفًا عَلٰی کَذَا زیادہ ہونا۔
اَنَافٌ اَنَافَةً عَلٰی الشَّيْءِ نمایاں ہونا۔ لبِا او
بلند ہونا۔ عَلٰی کَذَا زیادہ ہونا۔
البِنَافُ مِنَ الْجَمَالِ والنُّوقِ لبِا اور
اونچا اونٹ یا اونٹنی۔

النُّوقُ مِمَّ بلند کوٹان۔ آواز۔ دامن کے
نیچے کا حصہ۔ ج۔ اَنَوَاتُ۔
النَّوْفُ والنَّوْفُ زیادتی۔ عَشْرَةٌ دَنِیْفٌ
اونیف دس اور دس سے زائد۔ نیف
کا لفظ خض دانی پر زیادتی کو ظاہر کرتا ہے
خَمْسَةٌ عَشْرٌ وَنِیْفٌ نہیں کہہ سکتے۔
النَّیْفُ فضل و احسان۔

النَّیْفُ بلند پہاڑ۔ عَرْمِیْنِیْفٌ بلند عزت
امراء کی متینہ خوبصورت دراز قد عورت
نَاقٌ یَبُوْقٌ نَوْقٌ چربی کو گوشت سے جدا کرنا۔
نَوْقٌ تَنْوِیْقًا الْجَمَلُ اونٹ کو اچھی طرح
سدھانا۔ النُّخْلُ مادہ کھجور میں نہ کھجور
کے پھول ڈالنا۔ الشَّيْءُ چیز کو ترتیب
سے جمانا۔

اَتَقَّ اِنْبَاقًا وَنِیْقًا الشَّيْءُ فَلَانًا کوئی چیز
کسی کو پسند آنا کہتے ہیں تَنْوُقٌ تَنْوُقًا
تَنْیِیْقٌ تَنْیِیْقًا اَتَقَّ اِنْبَاقًا۔
کھانے پینے اور دیگر امور میں صاف
ستھرا ہونا۔ اِنْبَاقٌ الشَّيْءُ پسند کرنا۔
اِسْتَنْوَقَ اِسْتَنْوَقًا الْجَمَلُ اونٹ
کا اونٹنی کے مشابہ ہونا۔

النُّوقُ تھوڑی سرخی ملی ہوئی سفیدی۔
النَّبِیْقُ پہاڑ کی چوٹی۔ ج۔ نَبِیْقٌ دَانِیْقٌ
وَنَبِیْقٌ۔

النَّاقَةُ اونٹنی۔ ج۔ نَاقٌ وَنُوقٌ وَنُوقٌ
اَنُوقٌ وَوَنُوقٌ وَنَبِیْقٌ وَ
نَاقَاتٌ دَانُوقٌ وَجَبَّ۔ اَیَا بِنِ

وَنَبِیْقَاتٌ۔ اِنْبَاقًا۔ ہاتھ میں نکلنے
والی پھنسی۔ النُّوقَةُ مہارت۔

النَّوْقُ کڑی کا پرنا۔ ج۔ نَاقَاتُ۔
النُّوَقُ کاموں کو ہوشیاری سے انجام دینے والا
النَّبِیْقُ خوراک دپوشاک میں صاف ستھرا۔
النَّمُوقُ اچھا سدھا ہوا اونٹ۔ نہ کھجور کا
پھول ڈالا ہوا درخت خرما۔

نُوقٌ یُنُوقُ نُوْقًا دُنُوْقًا دُنُوْقًا
نَوَاقَةُ بے وقوف ہونا۔

اَنُوقَهُ اَلُوْقًا بیوقوف پانا یا خیال کرنا۔
اِسْتَنْوَقَ اِسْتَنْوَقًا بے وقوف ہونا۔
فَلَانٌ بے وقوف سمجھنا۔

اَلْنُوقُ احمق۔ بڑا بیوقوف۔ عاجز و جاہل
بولتے ہیں عاجز۔ ج۔ لُوْقٌ دُنُوقٌ۔
مُؤْنِتٌ لُوْقًا۔ ج۔ لُوْقٌ۔

اَلْمُسْتَنْوَقُ بیوقوف۔

نَالٌ یُنَالُ نَوَالًا وَنَوَالًا بِالْعَطِیَّةِ وَ
بِالْعَطِیَّةِ۔ وَمَالٌ لَّهٗ الْعَطِیَّةُ وَ
بِالْعَطِیَّةِ عَطِیَّةٌ عَشْنَا۔ کَالِیْنِی بِالْخَیْرِ
اس نے مجھ کو بھلائی پہنچائی۔ نَالٌ لَّهٗ اَنْ
یَفْعَلَ کَذَا۔ اس کے لیے ایسا کرنے
کا وقت آگیا۔

نَالٌ یُنَالُ نَبِیْلًا وَنَبِیْلًا نَبِیْلًا نَبِیْلًا
نَوَلَهُ تَنْوِیْلًا بَخِش دینا۔ نَوَلٌ عَلَیْهِ
بشیء دینا۔

نَاوَلَهُ مُنَاوَلَةً الشَّيْءُ دینا یا ہاتھ دراز
کر کے دینا۔

اَنَالَہ اَنَالَةً الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ کسی کو کوئی چیز
دینا۔ اَنَالَ فَلَانٌ بِاللَّهِ قِسْمَ کھانا۔ مَا
اَنُوْلَهُ۔ وہ کس قدر فیاض ہے۔

تَنَوَّلَ الشَّيْءَ لَبِنًا۔ عَلَیْنَا فَلَانٌ بَشِیْعٌ
بَسِیْر۔ تھوڑا دینا۔

تَنَادَلَ الشَّيْءَ لَبِنًا۔ مِنْ بَدِہ شَبِیْعًا۔
لَبِنًا پکڑنا۔

النَّوِلُ فَا مِمَّ عَطِیَّةٌ بَخِشش، بھلائی۔

النَّائِلَةُ قریش کے ایک بت کا نام۔
النَّوَالُ بَخِشش حصہ۔ دِیْتِی۔ نَوَالٌ اَنْ
تَفْعَلَ کَذَا۔ تمھیں ایسا کرنا چاہیے۔
النَّالُ عَطَا بَخِشش۔ رَجُلٌ نَالٌ۔ فیاض۔ سخی۔
النَّوِلُ مِمَّ۔ بننے والی وادی۔ جُلَابٌ کا کپڑا بیٹھنے
کی کڑی۔ ج۔ اَنَوَالُ۔ کہتے ہیں نَوَالُکَ
اَنْ تَفْعَلَ کَذَا۔ تمھارے لیے ایسا کرنا
مناسب ہے۔

النَّوَلَةُ نال کا اسم مرۃ عَطِیَّة۔ داد و بخشش۔
اَلْمِنُوْلُ وَالْمِنُوَالُ۔ جُلَابٌ کی کپڑا بننے کی
کڑی یا کرگہ۔ ج۔ مَنَاوِلُ۔ اَلْمِنُوَالُ
جُلَابٌ کہتے ہیں ہمارے علی مَنُوَالٌ دَا حِلِ
وہ سب ایک ہی قسم کے اخلاق کے ہیں۔
عَلٰی هٰذَا الْمِنُوَالِ اس طرز پر مَنُوَالُکَ
اَلَا تَفْعَلَ کَذَا۔ تم کو چاہیے کہ ایسا نہ کرو۔
نَامَلَهُ یَوْمَهُ قَوْمًا۔ سونے میں غالب آنا۔

نَامَ یَنَامُ نَوْمًا وَنِیَامًا۔ اذ گھٹنا ہونا۔ مرنا۔
اسم النیمۃ نَامَتِ السُّوقُ۔ بازار
کا ٹھنڈا پڑنا۔ الدیرجہ۔ ہوا کا ٹھنڈا۔

النَّارُ آگ کا بجھنا۔ نَامَ البَحْرُ یَسْمَدُ
کا سکون پذیر ہونا۔ العَرَقُ رگ کا
حرکت نہ کرنا۔ اَلنَّوْبُ کپڑے کا

برسیدہ ہونا۔ الدَجُلُ اللہ کے لیے
عاجزی کرنا۔ اَلْبِیْعُ اطمینان کرنا۔
عَنْ حَاجَتِهِ اپنی حاجت سے

غافل ہونا اور اس کی پرواہ نہ کرنا۔
فَلَانٌ لَا یَنَامُ وَلَا یَنِیْحُ۔ فلاں نہ
سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔ نَامَ هَمْدٌ
وہ بے ہمت ہے۔

نَوْمَهُ تَنْوِیْمًا اِسْلَانًا۔ نَوْمَ الرَّجُلِ کسی کا
بہت سونا۔ اَلدَّیْلُ اونٹوں کا مرنا۔
نَاوَمَهُ مُنَاوَمَةً۔ سونے میں غالب آنا۔

اَنَامَهُ اَنَامَةً۔ سُلَانًا قَتْل کرنا۔ اَنَامَ
زَبِیدًا۔ زید کو سوتا ہوا پایا۔

تَنَادَمَ تَنَادَمًا سونے کا بہانہ کرنا۔ نیند چاہنا



مطمئن ہوا۔ سکون حاصل کرنا۔
 اِسْتَنَامَ اِسْتِنَامَةً۔ الرجلُ سونا۔ نیند
 چاہنا۔ سونے کا بیان کرنا۔ اِلَى الشَّيْءِ
 مانوس ہونا۔
 النَّائِمُ۔ نا۔ سونے والا۔ ج۔ نِیَامٌ وَنَوْمٌ وَ
 نَيْمٌ وَنَيْمٌ وَنَوْمٌ وَنِیَامٌ وَنَوْمٌ کِلْ
 نَائِمٌ۔ گہری نیند والی رات
 النَّائِمَةُ۔ مؤنث النَّائِمِ۔ ج۔ نَوْمٌ۔
 النَّوْمُ۔ بہت سونے والا۔
 النَّوَامُ۔ نیند۔ نیند کی بیماری۔
 النَّوْمُ۔ م۔ نیند۔ نَائِمٌ کی جمع۔ رَجُلٌ
 نَوْمٌ وَنَوَامٌ۔ بہت سونے والا۔
 النَّیْمُ۔ رات کا لباس۔ پوسٹین۔ یاسینہ تک
 کی پوسٹین۔ پوری نعمت۔ وہ شخص جس
 سے اُنس حاصل ہو۔ ایک نرم کانٹے کا
 درخت جس کے پتے چھوٹے دانے چنے
 کے برابر زرش ڈالنے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں
 یَا نَوْمَانِ۔ اے بہت سونے والے۔
 النَّوْمَةُ۔ نام کا اسم مرہ۔ ج۔ نَوَمَاتٌ۔
 الْيَتِيمَةُ۔ نام کا اسم مرہ۔ مَالَهُ يَتِيمَةٌ كَيْلَةً
 اس کے پاس ایک رات کا گذرہ بھی نہیں۔
 النَّوْمَةُ۔ بہت سونے والا۔ غافل۔ گنام۔
 النَّوْمُ۔ غافل۔ گنام۔ الْمَنَامُ۔ نیند سونے
 کی جگہ۔ خواب۔ ج۔ مَنَامَاتٌ۔
 الْمَنَامَةُ۔ سونے کی جگہ۔ رات کا لباس۔ قبر
 الْمَنَامُ وَالْمَنَامَةُ۔ پست یا شبی جگہ
 جہاں پانی ٹھہرے۔ طَعَامٌ مِّنْ مَّنَامَةٍ
 خواب آور کھانا۔
 نَوْنٌ نَوْنًا۔ حرف نون لکھنا۔ الْكَلِمَةُ۔
 کلمہ پر تنوین لگانا۔
 النَّوْنُ۔ حرف نون۔ ج۔ نَوْنَاتٌ دَانَوَانٌ۔
 النَّوْنُ۔ دوات۔ مچھلی۔ ج۔ نَبْنَانٌ دَانَوَانٌ۔
 تلوار کی دھار۔ تلوار۔ ذُو النَّوْنِ۔ حضرت
 یونس علی نبینا وعلیہ السلام کا لقب۔ عرب
 کی ایک تلوار کا نام۔ ذُو النَّوْنِینِ۔ یعقل

بن خرید کی تلوار۔
 النَّوْنَةُ۔ مچھلی۔ نیک بات۔ چھوٹے بچہ کی
 ٹھوڑی۔ ج۔ نَوْنَاتٌ۔
 نَاكَ يَتَوَكُّ نَوَهَا۔ اَلْبَنَاتُ وَغَيْرُهَا۔ پودہ
 وغیرہ کا بلند ہونا۔ نَاهَتْ الْمَهَامَةَ
 اَلْوَاكَ سِرَاطًا كَرَجِيْنَا۔
 نَاهَتْ تَوَكُّ وَتَنَاكَ نَوَهَا۔ لَفْسُهُ
 عَنِ الشَّيْءِ۔ نفس کا کسی چیز سے رکتا
 حقیر جان کر چھوڑ دینا۔
 تَوَكُّةٌ تَتَوَكَّعُهَا۔ الشَّيْءُ۔ بلند کرنا۔ يَغْلَانِ
 بلند آواز سے بلانا۔ کسی کے ذکر کو بلند کرنا
 کسی کی تعریف کرنا، تعظیم کرنا۔ تَوَكَّعَ
 بِالْحَدِيثِ۔ زور سے بات کرنا۔ تَتَوَكَّعَ
 تَتَوَكَّعُهَا۔ بلند ہونا۔
 النَّوَكَةُ وَالنَّوَكَةُ۔ کسی چیز سے رکتا۔
 النَّوَكَةُ۔ ناک کا اسم مرہ۔ خوراک دن رات
 میں صرف ایک مرتبہ۔
 النَّوَكَةُ۔ بدن کی طاقت۔
 النَّوَاةُ۔ نوحہ کرنے والی عورت۔
 النَّوَكَةُ۔ بین کرنے والیاں۔ هُوَ اَلْوَكَاةُ مِنْ
 فُلَانٍ۔ وہ اس سے زیادہ اشراف ہے
 نَوَى۔ الشَّيْءُ يَنْوِيهِ نَوَاةً وَنِيَّةً وَ
 نِيَّةً۔ کسی چیز کا قصد کرنا۔ ارادہ کرنا
 حفاظت کرنا۔ مسافر کے لیے کہتے ہیں
 تَوَاكَ اللهُ۔ یعنی اللہ تمہارا محافظ ہے
 اور سفر میں تمہارا ساتھی ہو۔ تَوَاكَ
 اللهُ بِالْخَيْرِ۔ اللہ تم کو بھلائی
 نصیب کرے۔ ر۔ نَوَى (فُلَانٌ) مِنْ
 مَّكَانٍ إِلَى آخَرَ۔ ایک جگہ سے
 دوسری جگہ کو منتقل ہونا۔ النَّوَاةُ
 گھٹی پھینکتا۔ ر۔ نِيَّةٌ وَنَوَى)۔
 الْمَسَافِرُ۔ دور ہونا۔ نَبَاٌ دَنَوَايَةٌ وَ
 نَوَايَةٌ (النَّاقَةُ)۔ اذنی کا موٹی ہونا۔
 صفت (نَاوِيَةٌ دَنَاوِ)۔ ج۔ نَوَاوٌ۔
 نَوَى تَنَوِيَةً۔ حَاجَتُهُ۔ اپنی حاجت

پوری کرنا۔ نَوَتْ الْبُسْرَةَ۔ کچی کھجور کا
 گھٹلی والی ہونا۔ نَوَى فُلَانٌ۔ گھٹلی
 پھینکتا۔ فُلَانًا۔ کسی کو اس کی نیت
 پر چھوڑنا۔
 نَادَاكَ مُنَادَاةً۔ دشمنی کرنا۔
 اَنَوَى اِنْوَاءً۔ الرجلُ۔ کسی کا دور ہونا
 یا سفر میں بہت رہنا۔ حَاجَتُهُ۔
 حاجت پوری کرنا۔
 تَنَوَى تَنَوِيًا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا قصد و
 ارادہ کرنا۔
 اِنْتَوَاكَ اِنْتَوَاءً۔ قصد کرنا۔ اِنْتَوَاكَ
 يَتَوَاتَبُ۔ اس نے اس کی حاجت روائی
 کی۔ اِنْتَوَى الْقَوْمُ۔ قوم کا ایک شہر
 سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا۔ الْقَوْمُ
 يَتَوَضِعُ كَذَا۔ اقامت پذیر ہونا۔
 اِسْتَنَوَى اِسْتِنْوَاءً۔ الرجلُ۔ گھٹلی
 پھینکتا۔
 النَّادِي۔ فاعل نقلی کا پختہ ارادہ کرنے والا۔ اَوْنِي
 کا کوہان۔ فُلَانٌ نَادَى الْقَوْمَ وَ
 هُنْتَوَاهُمْ۔ فُلَانٌ شَخْصٌ قَوْمَ كَ امُورِهَا
 مختار اور صاحب رائے ہے۔
 النَّوَاءُ۔ کھجور کی گھٹلی بچنے والا۔
 النَّوَى۔ م۔ دوری۔ وہ جگہ جہاں کا مسافر
 ارادہ کرے۔ قریب ہو یا دور۔ گھر۔
 گھٹلیاں۔ اِسْتَقْدَمَتْ نَوَى الْقَوْمِ
 يَتَوَضِعُ كَذَا كَذَا۔ قوم کا کسی جگہ
 اقامت پذیر ہونا۔
 النَّوَى۔ م۔ چربی۔ اِنْيٌ مَوْبَايَا۔ النَّوَاةُ
 گھٹلی۔ ج۔ نَوَى دَلَوِيَاتٌ وَجَبَر
 اَنْوَاءٌ وَنَوَى دَلَوِيَّاتٌ۔
 الْيَتِيمَةُ۔ قصد، دل کا عزم۔ تجویز۔ حاجت۔
 مسافر کے سفر کی غایت کبھی یاء کی
 تحقیق سے نیت بھی کہتے ہیں۔ ج۔
 نِيَاتٌ۔ شَطَطٌ يَهْجُزُ نِيَّةً قُدُفٌ۔
 دور کے سفر نے ان کو دور پھینک دیا۔



نَوْدَانِيَّةٌ قَدْ فَا - انھوں نے دور
کی جگہ کا قصد کیا۔

النَّوِي - ہمدرد دوست۔
كَأَنَّ بَنِيَّ نِيًّا دُيُوءًا دُيُوءَةً -
الْحَمْدُ وَغَيْرُهَا - گوشت وغیرہ کچا رہنا
نِيًّا نِيًّا - الامور کام کو ناقص طور سے
کرنا۔

أَيْنَا - الْحَمْدُ نِيًّا - گوشت کو کچا رکھنا۔
النَّيُّ وَالنَّيُّ - مِنَ الْحَمْدِ - کچا گوشت یا
نیم پختہ خالص دودھ۔

نَابَةُ نِيْبَةٍ نِيًّا - دانت پر مارنا۔
نِيْبَتٌ - نِيْبَتٌ - الناقه - ادھنی کا
بورھی ہونا۔ نِيْبَتٌ - نِيْبَتٌ - نباتات کی
جڑیں بھوٹنا۔ فلان السَّهْمَةِ تیرکی
مکڑی پر دانت لگا کر اس پر نشان ڈالنا
- زَيْدٌ - دانت پسینا۔ دانت کا ٹٹنا۔
فلاناً - دانت سے کاٹنا۔

نِيْبَتٌ نِيْبَتٌ - النَبْتُ - پودے کی جڑیں
نکلنا۔ الشَّيْبُ بڑھا پاتا ہر ہونا۔
النَّابُ - کچلی۔ جہ - أُنْيَبٌ وَأُنْيَابٌ
نِيُوبٌ وَأُنْيَابٌ۔
النَّابُ - بورھی ادھنی - تصغیر - نِيْبٌ۔
جہ - أُنْيَابٌ وَنِيُوبٌ وَنِيْبٌ -
نَابُ الْقَوْمِ - قوم کا سردار۔ جہ۔
أُنْيَابٌ۔

النِّيُوبُ - بورھی ادھنی۔
الْأُنْيَبُ - موٹے دانتوں والا۔ مونث
نِيْبَاءٌ - جہ - نِيْبٌ۔

نَاَتَ يَنْبُتُ نِيْنَا - کمزوری سے ڈگدگانا۔
نَاَحَ يَنْبُجُ نِيْنَا وَنِيْنَا - الغُصْنُ -
شاخ کا جھکنا۔ نِيْنَا - الْعُظْمُ -
ہڈی کا سخت اور مضبوط ہونا۔

نِيْحَ نِيْحًا - اللَّهُ عَظْمُهُ - ہڈی کو
مضبوط کرنا یا چورا چورا کرنا۔ کہتے ہیں

مَا يَنْبُجُهُ يَنْبُجٌ - میں نے اس کو کچھ
نہیں دیا۔

النَّيْحُ - سخت۔
نَاَرُ الثَّوْبِ يَنْبُجُ نِيْرًا وَنِيْرَةً -
تَنْبُجًا وَنَاَرَةً إِنْ أَرَاكَ - کپڑا ہلکا۔
النَّائِرُ - نا۔ شرا انگیز۔
النَّيْرُ - کپڑے میں کنارہ لگانے والا کپڑے
میں نقش و نگار کرنے والا۔

النِّيْرُ - بیوں کی گردن پر رکھنے کا جوا۔ جہ
أُنْيَارُ نِيْرَانٍ - کھٹے دھاگے۔ کپڑے
کا نقش و نگار۔ کپڑے کا چھور۔ سڑک
کا کنارہ۔ راستہ کی نمایاں کھائیاں۔
رَجُلٌ ذَوْنِيُوْنٍ - اپنے ساتھی سے
ڈگنی قوت رکھنے والا۔ حَرْبٌ ذَاتُ
نِيْرَتَيْنِ - سخت جنگ۔

النِّيْرُ وَالنِّيْرَةُ - تَنْبُجُ الثَّوْبِ کا اسم
جانب سے کاراچہ جس پر وہ کپڑا پیٹتا ہے۔
جو شخص نہ نفع بخش ہو نہ ضرر رساں، اس
سے کہتے ہیں: مَا أَنْتَ بِسَيِّئَةٍ وَلَا
خَيْرَةٍ وَلَا نِيْرَةٍ - بَيْنَهُمَا مَيِّدَةٌ۔
ان کے درمیان فساد ہے۔

النِّيْرُ - موٹی جلد۔ دُھرے دھاگہ والا کپڑا
دوسوٹی کپڑا۔
نِيْرَبٌ - الرَّجُلُ - چھلی کھانا۔ جھوٹا ہونا
- النِّيْرَبُ - فساد۔ جھجھوری۔ چست
وچابک آدمی۔ رَجُلٌ نِيْرَبٌ وَدُوْ
نِيْرَبٌ - شریرا آدمی۔

نِيْرَجٌ نِيْرَجَةٌ - الرَّجُلُ - چھلی کھانا۔
النِّيْرَجُ - جھجھور۔ کپڑے کا بیل ہونا۔ ہل
کی پھالی۔ غلہ کا ہٹنے کا آلہ۔ تیز رفتار۔
النِّيْرُكُ - جھوٹا نیزہ۔ نیزہ کی طرح کا شعلہ
شباب ثاقب۔ جہ - تِيَارِكٌ۔

النِّيْسَانُ - ماہ اپریل۔
النِّيْصُ - کمزور۔ حرکت۔ موٹی سیبی۔

نَاَصَ يَنْبُضُ نَبْضًا - العَرَقُ - رگ کا
حرکت کرنا۔

نَاَطَ يَنْبُطُ نَبْطًا وَنَاَطًا وَنَبْطًا
دور ہونا۔

النَّبْطُ - مم۔ جنازہ۔ موت۔ مدت۔
نَاَعَ يَنْبُجُ نَبْجًا - الغُصْنُ - ٹہنی کا جھکنا
صفت (نَاَبَجٌ)

نَالٌ يَنْبُلُ وَنِيَالٌ نِيْلًا وَنَالًا وَ
نَالَةً - الْمَطْلُوبُ - مطلب پانا۔

حاصل کرنا۔ صفت فاعل (نَالٌ) صفت
مفعول (نَمِيلٌ) امر (نَالٌ وَنَالٌ) -
نَالٌ مِنْ فُلَانٍ - کسی کو گالی دینا۔ اس
پر عیب لگانا۔ نَالِيٌّ مِنْ فُلَانٍ
مَعْرُوفٌ - فلاں کی طرف سے مجھ کو
بھلائی پہنچی۔ نَالٌ مِنْ عَزْزٍ فُلَانٍ -
کسی کی بے عزتی کرنا۔ نَالُ الرَّجُلِ -

کوچ کا دقت قریب آپہنچنا۔
أَنَالَ إِنْ أَلَاكَ - فَلَا نَالُ الشَّيْءِ وَفُلَانٌ الشَّيْءُ -
کسی کو کوئی چیز حاصل کرنا۔

النَّالُ - حاصل کی ہوئی چیز
النَّبِيلُ - مطلب۔

النَّبِيلُ - دریائے نیل کا پودہ۔ بادل۔
النَّالَةُ - گمر کا معنی۔

النُّوْلَةُ وَالنَّيْلَةُ - حاصل کردہ شے۔
النِّيْلُجُ وَالنِّيْلُكُنْجُ - چربی کا کاجل جو
گودنے کے کام میں آتا ہے۔

النِّيْلُجُ - نیل کا رنگ۔
النِّيْلُوْفُ - نیلوفر۔

النَّيْمُ شَتٌّ - آدھا بھٹا ہوا۔
نَاَكَ يَنَّا نِيْرَةً - الشَّيْءُ - چیز کا بلند ہونا
پسند آنا۔

النَّائِلَةُ - بلند اونچا، نَفْسٌ نَاهَةٌ - بدی
سے رُکے والا نفس۔

النَّائِي - بانسری۔ جہ - نَائِيَاتٌ -



واؤ کئی طرح مستعمل ہے

(۱) حرف عطف جیسے جَاءَ زَيْدٌ وَ
عمرو

(۲) واؤ حالیہ۔ یہ کبھی جملہ اسمیہ پر آتا ہے
جیسے جَاءَ زَيْدٌ الشَّمْسُ كَالْقَدْحِ
کبھی جملہ فعلیہ پر جیسے جَاءَ زَيْدٌ
وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

(۳) واؤ استیناف جیسے لَا تَأْكُلِ السَّمَكُ
وَتَشْرِبِ اللَّبَنَ

(۴) واؤ معیت جیسے سَارَتْ
وَالْجَبَلُ

(۵) واؤ جو مضارع منصوب پر داخل ہو
جیسے لَا تَتَذَكَّرْ عَلَى خَلْقٍ وَتَأْتِي
مُثْلَهُ

(۶) واؤ قسم جیسے وَاللَّهِ الْعَظِيمِ
(۷) واؤ مبنی رب جیسے رَسِلَ كُتُوبِ
الْبَحْرِ ارْضَى سُلُوكُهُ

(۸) واؤ ضمیر جمع مذكر جیسے قَامُوا

(۹) واؤ علامت جمع مذكر جیسے :
يَكُونُ مَوْفِي قُوْمِي

(۱۰) واؤ فصل جیسے عمر میں حالت رفعی
وجری میں تاکہ عمر سے اس کو امتیاز
حاصل ہو۔

(۱۱) واؤ زائد بعد الا جیسے مَا مِنْ أَحَدٍ
الْأَوَّلِ طَمَعٌ وَحَسَدٌ

وا۔ نذب کہہ لئے مخصوص ہوتی ہے جیسے
وَأَزِيدَاكَ اور کبھی بڑا حقیقی میں
مستعمل ہوتا ہے۔

الْوَرْحُ وَالْوَرْحَةُ۔ رنگین ہیں
سبزہ زار جمہ و آحاث۔

وَأَبَّ يَكْبُ وَأَمَّا دَابَّةٌ مِنْ ثَلَاثٍ
کسی سے شرم دیا کرنا اور جھجکنا۔

وَسَبَّ يُوَابُّ وَأَبَّ۔ غضبناک کرنا
أَوَّابٌ وَأَثَابَةٌ۔ غضبناک کرنا
کسی کے ساتھ شرم ناک بات کرنا
حاجت سے ذلت کے ساتھ پھیر دینا

أَثَابَ أَثَابًا۔ منہ۔ شرمناک ہونا
الْأَبَّةُ وَالْوُتْبَةُ وَالْمَوْعِدَةُ
وَالْمَوْعِدَةُ۔ رسوائی۔ نادر شرم
الْوَأْبُ۔ مِنَ الْقَدَاحِ۔ بڑا پیالہ
مِنْ الْفُؤَادِ۔ متصل کناروں والا۔
مضبوط کھڑ۔ وسیع۔ بڑا اونٹ۔

جاء اؤ آؤ۔
الْوَابَةُ۔ چٹان کا گڑھا (وَالْوَابَةُ)
گرا کنواں۔
الْمُؤَبَّاتُ۔ مسواکن باتیں۔
الْوَأْبُ۔ سخت جھوک
وَأَوَّابٌ وَأَوَّابٌ۔ اب۔ اب۔
کوزندہ درگزر کرنا۔ صفت مفعولی
(وَقَيْدٌ وَيَدَاةٌ وَهَوْدَةٌ) فدا کرنا
برجھل کرنا۔

تَوَادَّ وَاتَّادَ۔ فِي الْأَهْلِ کسی امر میں ملت
و آمسگی سے کام لینا۔
تَوَادَّتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ۔ زمین کا کسی کو
چھپانا۔ غائب کرنا۔ الْمَرْأَةُ فِي
قِيَامِهَا۔ ہماری بھرپور بولنے کی دیر سے
عورت کا چلنا۔

الْوَأْدُ۔ سخت دھماکا۔ اونٹ کی آواز۔
الْوَيْدُ۔ سخت آواز۔ اونٹ کی
بللاہٹ۔ پیروں کی آہٹ جو دور
سے سنائی دے۔ مَشْيٌ مُشْيًا
وَمَيْدًا۔ وہ سنجیدگی اور متانت کی چال
چلا۔ (وَالْوَدُودَةُ وَالْوَوَادُ)۔
سنجیدگی۔ متانت۔

الْمَوَاتِ فِي مَسِيرَتِهِ۔
وَأَزِيدَاكَ وَأَمَّا دَابَّةٌ مِنْ ثَلَاثٍ
گھبراننا۔ انار و لئنا۔ آگ جلانے
کے لئے گڑھا تیار کرنا۔ وَكَوَادُ
تَوَيْتُورًا۔ نڈا۔ ناصیبیت میں ڈالنا
أَوَّارَةُ إِيَّارًا۔ نفرت دلانا۔ آگاہ
کرنا۔

اسْتَوَارَتِ الْوَيْلُ۔ اونٹوں کا ایک
کر پھاڑ پر چڑھ جانا
الْأَرَّةُ جَمَاعَاتُ وَأَرْوَنَ وَ
الْوَرَّةُ جَمَاعَاتُ
اَزْوَادُوس۔ آگ۔ رو جھیں پکا ہوا
گوشت۔ دشمنی۔ آگ کی جھوک
کودان کی چربی۔

الْوَتَامُ۔ چکنی سٹی کے گڑھے۔ اَرْضُ
وَسِيْرَةٌ۔ سخت گرم زمین۔
وَأَصْحَى يَتَصَرُّ وَأَصْحَا۔ يَدِ الْأَرْضِ
زمین پر دسے مارنا۔


تَوَاصَّسَ۔ الْقَوْمُ۔ اکٹھا ہونا۔ پانی
پر بھجھ کر کرنا۔

الْوَيْضَةُ۔ جماعت۔ مخلوق۔ مَآ
أَذْرَى أَيْ الْوَيْضَةُ هُوَ۔ میں
منیں جانتا وہ کون آدمی ہے۔
وَأَطَّ يَطُّ وَأَطَّطَا۔ الْقَوْمُ۔ ملاقات
کرنا۔ الشَّيْءُ۔ جوش میں آنا۔

الْوَأْطَسُ۔ مِنَ الْأَرْضِ۔
بند زمین۔

مِنْ الْمَاءِ۔ پانی کی
گمراہی۔

وَأَلَّ يَلُّ وَأَلَّوْ يَلُّوْ وَأَلَّوْ
وَدَّ أَلَّ وَ مِمَّا لَا دُمُوءَ لَكِ
مِنْ كَذَا۔ کسی سے نجات طلب کرنا



إِلَى الْمَكَانِ كَيْسِي مَكَانِ كُلِّ طَرَفٍ جَدِي
جَانَا وَأَلْ فُلَانَا كَيْسِي سَيَاهُ لِينَا -
إِلَى اللَّهِ جَوْرُ كَرْنَا - وَأَوَّلُ
الْمَكَانِ جَلَكَا سَبْتِ مِينَكِيوَن دَالِي
هَوْنَا وَأَوَّلُ الْمَكَانِ جَلَكَا سَبْتِ
مِينَكِيوَن دَالِي كَرْنَا - أَوَّلْتُ
أَلْمَا شَيْبَةً فِي الْمَكَانِ أَوَّلَكَا
پیشاب اور مینگی سے خواب کرنا -
أَوَّلُ وَالْمَوْتِ وَالْمَوْتِ أَلَّة
بناہ کی جگہ -

إِسْتَوَيْتُ إِسْتَيْتَالًا - الْأَبْلُ :
اوتھنا کا بچ ہونا -

أَوَّلُ - اوتھنا کی بڑی مینگی
وَأَمَّا أَلْمَا شَيْبَةً كَوْنِيْمَا - بِشَكْلِ كَرْنَا
وَأَمَّا أَلْمَا شَيْبَةً كَوْنِيْمَا - بِشَكْلِ كَرْنَا
اوتھنا کرنا تو اوتھنا موافق ہونا

منا سب ہونا
أَتَاءَ مَتَّ إِيْتَامًا - الْمَرْأَةُ عَوْرَت
کا جوڑواں بچے جتنا - صفت -
مُنْتَمِمْ -

الْوَاهِرُ - كَرْمُ كَرْمِ
أَوَّلُ - تَعَالَى أَوَّلُ

الْمَوْتُ - بِشَكْلِ بَطْنِ سِرْوَالَا -
الْمَوْتُ - فَا - غِنَا وَمَوْتُ -

منا سب -
وَأَوَّلُ وَأَوَّلُ - الْكَلْبُ - كَلْبُ كَا
بھونکنا -

وَأَيَّ سَيِّ وَأَيَّ - عَدَدُ كَرْنَا - الشَّيْ
ذمہ دار بننا -

تَوَاعِي تَوَاعِي - الْقَوْمُ جَمْعُ هَوْنَا
اِتْمَامِي اِتْمَامِي - وَعَدَةُ قَبُولُ كَرْنَا -

إِسْتَوَيْتُ إِسْتَيْتَالًا - الْمَرْجِلُ كَيْسِي
وعدہ لینا -

الْوَاهِي - مَعْدُ وَعْدُ - دِيم - گمان لوگوں
کی تعداد -

الْوَاهِي - مِنَ الدَّوَابِّ - سَبْتِ تِيرِفَتَا -
موت و آء

الْوَاهِيَّة - بَطْنِ بَطْنِ بَطْنِ - بَطْنِ
پیٹ والی اونٹنی -

(وَالرَّأْيَةُ) بَطْنِ بَطْنِ بَطْنِ -
پیارے -

وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا
لئے تیار ہونا -

وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا
سے جانا -

وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا
اشارہ کرنا -

وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا
وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا

وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا
جگہ کا سبب و بارزدہ ہونا -

اسم السَّيَّة - كَوْنِيْمَا - الْمَدِينَةُ -
کی آب و ہوا کرنا موافق پانا -

إِسْتَوَيْتُ إِسْتَيْتَالًا - الْمَدِينَةُ -
شہر کو بارزدہ پانا -

الْوَبَاءُ - كَرْمُ كَرْمِ - وَالْوَبَاءُ - كَرْمُ كَرْمِ
وہابی بیماری - عام متعدی بیماری

الْوَبِي وَالْوَبِي - كَرْمُ كَرْمِ - وَالْوَبِي - كَرْمُ كَرْمِ
زردہ جگہ -

الْمُوْبِي - فَا - تَهْوِزُ اِيَانِي
وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا

وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا
کرنا - وَبَطْنِ - مَلَامَتُ كَرْنَا دُكِي

دینا - عار دلانا -
الْوَبِيَّة - الزَّام - جھڑک - تکلیف دہ

ملامت -
وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا

وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا
پرٹے کا پرانا ہونا - اَلْهَارُ دُنْ كَا

سخت گرم ہونا - علیہ کسی پر غضبناک
ہونا -

وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا
تَوْبَتَا - أَمَّا أَلْمَا شَيْبَةً - نَهْرُ لَكَانِي كَا

لئے مال کو متعین کرنا -
الْوَبِي - بِهَارُ كَا كَرْمَا -

الْوَبِي - مَعْدُ - بِهَارُ كَا كَرْمَا -
(وَأَصْحَابُ) کبھی اَوْبَا دُجِج لَاتے ہیں

الْوَبِي - كَرْمِ - بِهَارُ كَا كَرْمَا -
الْوَبِي - بھوکا - وَالْمَوْتِ سَبْتِ تِير

نظر بد لگانے والا - قَوْمُ أَوْبَا دُجِج
کنگال لوگ -

الْمُسْتَوْبِي - جَاهِلِ مَفْلَسِ
وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا

بہت پشیم والا ہونا - صفت و بَر
وَأَوْبُو مَوْنُ وَبَرُ وَبَرُ وَبَرُ

وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا
وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا

وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا
کانشاں چھپانے کے لئے کسی سخت

زمین پر چلنا - الرَّجُلُ بِالْمَكَانِ -
اقامت کرنا - فُلَانُ كَيْسِي كَا بھانگنا

متوحش ہونا - تینہا زندگی بسر کرنا -
عَلِيَّ الْأَمْرِ - مَعَالَمُ كَيْسِي بِرُوشِيْدُ كَرْمَا

وَبَطْنِ يُوْبُ وَبَطْنِ - لَطَائِي فِي حَمَلِ كَا
میں گاہا دینا -

الْوَبِي - سَرْدِي كَا سَاتِ دَنُوں مِیں سَے
ایک دن - تَبِي سَے جھوٹا ایک جانور

مَوْنُ الْوَبَرُ جَمْعُ وَبَرُ وَبَرُ
الْوَبَرُ - مَعْدُ - اوتھنا اور غرگوش کے

بال جَمْعُ اَوْبَا دُجِج - أَهْلُ الْوَبَرِ
دیہاتی لوگ -

کہتے ہیں - أَخَذَ الشَّيْ بَوْبَرُ كَا
یعنی سب چیز لے لی -

الْوَبَرُ - فَا - کہتے ہیں - مَا بِاللَّارِ
وَأَبَرُ - گھر میں کوئی نہیں -

نَبَاتُ الْأَوْبَرُ وَنَبَاتُ الْأَوْبَرِ -
قسم کی سانپ کی پھرتی -

لَقِيتُ مِنْهُ نَبَاتٍ أَوْ بَرٍّ فِي مِيْنِ
اس سے مصیبت پائی
وَلَيْشَ يُوْبَشُ وَبَشًا - الظفر او
جلد البعید - ناخن وغیرہ کا سفید
داغ والا ہونا - صفت - وَبَشٌ -
وَلَيْشٌ تَوْبِيشًا - الجمر - چنگاری کا
سُكْنَا - القوم فی امر - برطن سے
بھیر کر کے آنا -
للحرب - رطائی کے لئے مختلف قبل
سے جمع ہونا -
أَوْبَشَ جلدی کرنا - أَوْبَشَتِ الْأَرْضُ
مخلوط پودوں والی ہونا -
الْوَبَشُ وَالْوَبَشُ - اونٹ کی جلد پر
کھلی کے داغ - ناخن کے سفید داغ
الْوَبَشُ - جم اوْباش - کہتے لوگ وَبَشُ
الْكَلَامِ - زدی کلام -
مَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْأَوْبَاشِ
مِنْ شَجَرٍ أَوْ نَبَاتٍ - اس زمین
میں تھوڑے بھرے ہوئے اور
متفرق درخت ہیں -
وَبِصٌ وَبِصٌ وَبِصٌ وَبِصٌ
وَبِصَةٌ - چمکنا - صفت : وَابِصٌ
- الجؤ - پتے کا آنکھیں کھولنا
وَبِصَتِ الْأَرْضِ - زمین کا بہت
نباتات والی ہونا -
وَبِصٌ يُوْبِصٌ وَبِصًا جیت ہونا
صفت وَبِصٌ -
وَبِصٌ - الجؤ - پتے کا آنکھیں کھولنا
- لَهُ بَبِصٌ تَهْزُؤًا دینا -
أَوْبِصَتِ النَّارُ - آگ کا روشن ہونا
آگ کا شعلہ اٹھنا - أَبِصٌ
وَابِصٌ - سفید چمک دار
الْوَابِصَةُ وَالْوَبِصَةُ - آگ
الْوَابِصَةُ - دھشت و خوف -
مَا فِي النَّارِ وَالْبِصَةُ - آگ میں

چنگاری نہیں -
الْوَبَاشُ - چاند - بہت چمکدار -
تَمَارِصٌ وَتَبَاشٌ - بہت بجلی چمکانے
والا بادل -
وَبَطٌ يَبْطُ وَبَطًا - الجؤ - نرم کھونا
الرحل - کسی کی قدر گھٹانا - ذیل
کرنا - فَلَانًا عَنْ حَاجَتِهِ - کسی کو
اس کی حاجت سے روک دینا - (وَدِکَا
يُوْبِطُ وَيُوْبِطُ يُوْبِطُ وَبَطًا) -
وَوَبَطًا وَوَبُوطًا وَبَاطَةً - کمزور ہونا
خسین و بزدل ہونا -
أَوْبَطَةً - اچھی طرح خون بہانا - اچھی طرح
قتل و قمارت کرنا -
الْوَابِطُ - خسین - کمزور - بزدل -
اُتْرَنے والا - الوِبَاطُ - کمزوری
وَبَقٌ يَبِقُ وَدَبِقٌ يَبِقُ وَبَقًا وَبَقٌ
يُوْبِقُ وَبَقًا وَوَبُوقًا وَوَبَقًا
وَأَسْتَوْبِقُ - ہلک ہونا صفت
(وَبِقٌ)
أَوْبَقَهُ رَابِقًا - ہلک کرنا - ذیل
کرنا - قید کرنا
الْوَبِيقُ - ہلاکی کی جگہ - وعدہ کی جگہ -
قید خانہ - دو چیزوں کے درمیان
حائل ہونے والی چیز -
فَلَانٌ يَرْكَبُ الْوَبِيقَاتِ - فلاں خطر
میں ڈالتا ہے وَفَعَلَ الْوَبِيقَاتِ
فلاں معاصی کا مرتکب ہوتا ہے -
وَبَلٌ يَبِلُ وَبَلًا بِالْعَصَا - گتار
لاٹھی سے مارنا - الضَّيْقُ - شکار کا
تغالب کرنا وَبَكَتِ السَّمَاءُ -
آسمان کا بہت بارش برسانا -
وَبَلٌ يُوْبِلُ وَبَلًا وَوَبَالًا وَوَبُولًا
وَوَبَالَةً - الکان کسی جگہ کا مضر
صحت ہونا - الشَّيْءُ -
سخت ہونا -

وَابِلَةٌ مَوَابِلَةٌ - ہمیشگی کرنا -
أَسْتَوْبِلُ اسْتِئْبَالًا - الْمَكَانُ -
کسی جگہ کو مضر صحت پانا -
أَسْتَوْبِكُ الْإِبِلُ - اونٹ کا چار
کے مضر صحت ہونے کی وجہ سے
بیمار ہونا -
الْوَبِلُ وَالْوَابِلُ - بہت بارش بڑے
بڑے قطروں والی بارش -
الْوَابِلَةُ - بازو یا ران کا اوپر کا حصہ -
الْوَابِلُ - مہر - شدت - سختی -
آپ دیوانہ کی نافرمانی - بڑا انجام
الْوَبِلَةُ وَالْوَابِلَةُ - بوجہ - شدت
آپ دیوانہ کی خرابی - بد معنی -
أَخَذَ شَهْ وَبَكَةً الطَّعَامِ او
أَبَكَةً الطَّعَامِ - اُس کو کھانے سے
بد معنی ہو گئی -
الْوَبِيلُ - سخت - قُرْعَى وَبِيلٌ مَرَضٌ
صحت - چراگاہ - کھارم وَبِيلٌ
وہ کھانا جس کے مزر کا اندیشہ ہو -
ناقوش بجانے کی لکڑی - نرم شاخ
دھوبی کی موگری کہتے ہیں أَسِيلٌ
عَلَى وَبِيلٍ - لاٹھی سے سہارا
لینے والا اور سہارا - وَالْوَبِيلَةُ وَ
الْمَوْبِلُ وَالْمَبِيلُ - موٹھی لائی
لکڑی کا گٹھا -
الْمَبِيلُ وَالْمَبِيلَةُ - کوڑا - اچانک -
ج مَوَابِلُ - مَا بِالْأَرِ
وَابِجٌ - گھرمی کوئی نہیں -
الْوَبْنَةُ - اذیت - بھوک
وَبَنَةٌ وَبَنَةٌ يُوْبَنُ وَبَنًا وَبَنًا
وَوُبُونًا وَأَوْبَنُ إِنْبَاهًا يَضْلَانِ
وَبَنٌ - سمجھنا - جانتا -
فَلَانٌ لَا يُوْبِنُ بِهِ أُولَهُ
فلاں کی پروا نہیں کی جاتی -
وَتَأْتِيكَ فِي مَشْيِهِ سُسْتٌ رَفَارٌ



سے چلے۔
وَاتَاَهُ مُوَاتَاةً وَوَتَاءً عَلَى الْأَمْرِكَام
میں کسی کی موافقت کرنا۔

وَنَحْوَ يُونُحَ وَنَاثِقَةَ وَنَحْوَ
وَنُوحَةَ - العطاء بخشش کا کم ہونا
وَنَحْوَ يُونُحَ وَنَحْوَ وَنَحْوَ - العطاء
بخشش کم کرنا

أَوْ نَحْوَ إِيْتَا حَا وَوَتَحْ تَوْتِيحَا
- العطاء بخشش تھوڑی کرنا
- أَوْ نَحْوَ الرُّجُلِ - آفت لاحق
ہونے سے کم مال والا ہونا - مُلَانَا
ربخ و مشقت میں ڈالنا - كَرَّ الشَّيْءُ

کم کرنا
تَوْتَحَ - تَوْتَحَا - مِنَ الشَّرَابِ -
تھوڑی پینا۔

الْوَتَحُ وَالْوَتَحُ وَالْوَتَحُ كَمَا يَجُز
رَجُلٌ وَنَحْوَ خُسَيْسٍ أَدَمِي -
طعام و نَحْوَ - بے برکت کھانا۔
مَا أَغْنَى عَنْهُ وَنَحْوَ - اس نے
اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔

وَنَحْوَ كَيْنَخَ وَوَتَحْ - العطاء بخشش
لاٹھی سے مارنا۔

أَوْ نَحْوَ إِيْتَا حَا - انتہائی مشقت کو
پہنچنا۔

الْوَتَحَةُ - کچھڑ - مَا أَغْنَى عَنْهُ
وَنَحْوَ - اس نے اس کو کچھ فائدہ
نہیں دیا۔

الْمَيْتَخَةُ - لاٹھی۔

وَكُنْ يَتَدُ وَتَدَا وَتَدَا وَتَدَا
الوَتَدُ - میخ گردنا - اَوْتَدَا -
میخ کاڑنا - وَتَدَا فِي بَيْتِهِمْ - گھر میں
اقامت کرنا وَتَدَا الزَّرْعُ بَنَاتٍ كَا
پھوٹنا اور مضبوط ہونا۔

أَوْ تَدَا - إِيْتَا دَا - الوَتَدُ - میخ کاڑنا
الْوَتَدُ وَالْوَتَدُ وَالْوَتَدُ - کھوٹی

کان کے سامنے کا اٹھا ہوا حصہ۔
جِ أَوْ تَدَا - أَوْ تَدَا - أَوْ تَدَا -
اَوْتَدَا - البِلَادُ - ملک کے دوسرا اور
بڑے لوگ - أَوْ تَدَا - أَوْ تَدَا -
اہل عرض کی اصطلاح میں تین حرمت
جن میں سے دوسرا تیسرا ساکن ہو تو وہ
مفروق کہلاتا ہے جیسے قَوْلُ اور اگر
تیسرا ساکن ہو تو اس کو وَتَدَا مجبور
کہتے ہیں جیسے علی

الْمَيْتَدُ وَالْمَيْتَدُ - کھوٹی گاڑنے
کی کڑی یا لوہے کی موگڑی

الْوَاتِدُ - فَا - ثابت۔

وَتَرِيكَوْشَرَا وَتَرِيكَوْشَرَا -
وَتَرِيكَوْشَرَا وَتَرِيكَوْشَرَا - مُلَانَا -

گھرا دینا کسی کو ستانا یا تکلیف پہنچانا
فَلَانَا مَا لَهُ أَوْ حَقَّهُ مَا يَحِقُّ كُو
کم کرنا - الْقَوْمُ - قوم کو دتر بنانا
الْقَوْمُ - کمان میں تانت لگانا۔

أَوْ تَرِيكَوْشَرَا - الْقَوْمُ - کمان سے بے
تانت بنانا یا اس کا تانت مضبوط
باندھنا - الشَّيْءُ جَزِيءًا كُو تَرِيكَوْشَرَا -

بَیْنُ الْأَشْيَاءِ - وقفہ دے دے کر
برابر کرنا۔

وَأَتَرُوْشَرَا وَوَتَرُوْشَرَا - الْأَشْيَاءِ -

وقفہ چھوڑ چھوڑ کر برابر کرنا - الْكُتُبُ
پے درپے بھیجنا - الصُّلُومُ - ایک
دن یا دو دن بیچ روزہ رکھنا۔

وَتَرُوْشَرَا - الْقَوْمُ - کمان کی تانت کٹنا
تَوْتَرُوْشَرَا - العصب و نحوه - پٹھے وغیرہ
کا سخت ہونا۔

تَوَاتَرَتْ - الْأَشْيَاءُ - چیزوں کا
وقفہ کے ساتھ ایک دوسرے کے
پچھے آنا۔

الْوَتَرُ وَالْوَتَرُ - بے مثل - بدل لینا
یا بدلہ لینے میں ظلم کرنا - جِ - أَوْ تَدَا

الْوَتَرُ - جمع وَتَرَةٌ - کمان کی تانت - جِ
أَوْ تَدَا وَوَتَدَا -

الْوَتَرَةُ - دو انگلیوں کے درمیان کی
کھال - کان کے اوپر حصہ کی نرم بڑی
یا ناک کے بانسہ اور مونچھ کے درمیان
کا حصہ کمان سے تیر نکلتے کی جگہ - ہر
چیز کا خالص حصہ جِ وَتَرُوْشَرَا
الْوَتَرَةُ - طریقہ بیچ کا وقفہ - بستی

ایک دائرہ جس پر نیزہ کا استعمال کیا
جاتا ہے - قبر گھوڑے کی پیشانی

کا گول سفید نشان - بدل لینا یا بدلہ
میں ظلم کرنا - تَاقِدٌ - تاخیر - مَقْنُونٌ

لکے درمیان کی نرم بڑی - کان کے
اوپر کی نرم بڑی - دو انگلیوں کے

درمیان کی کھال - ہرنٹ کا حلقہ - گھوڑے
کے درمیان طاق مناجہ سفید زمین

گلاب کا شگوفہ - پہلی دکانی -

تَوْتَرُوْشَرَا - بجائے وَتَرُوْشَرَا کے ایک ایک
کر کے آنا۔

الْمَوْتَرُوْشَرَا - مقتول کا وارث جو بدلہ نہ
لے سکے۔

الْوَتَرُ - ہر تھوڑی چیز - رذیل لوگ
وَتَرُوْشَرَا وَوَتَرُوْشَرَا - گنہگار ہونا۔

دین و دنیا میں ہلک و تباہ ہونا۔
دردمند ہونا۔ بدخلق ہونا۔ ملامت

زدہ ہونا - گفت گو میں نام بھیج کرنا۔
بڑی بات کہنا اور بہت جاہل ہونا۔

فِي حَاجَتِهِ - حجت میں غلطی کرنا۔

أَوْ تَرُوْشَرَا - ہلک کرنا - قید کرنا۔

مضیبت میں ڈالنا - دردناک کرنا

مضربات کی تلہیں کرنا اَوْ تَرُوْشَرَا دَیْتَهُ

بِالْأَتَرِ - گناہ سے دین خراب کرنا۔

الْوَتَرَةُ - دلیل کی غلطی

الْمَوْتَرَةُ - ہلاکت
وَتَرُوْشَرَا وَوَتَرُوْشَرَا - الماء



پانی کا ہمیشہ بہنا اور نہ رگنا۔
 — بالکان کسی جگہ اقامت کرنا
 (وَتَبَّكَ وَتَبَّكَ) الرجل بشہ رگ پر مارنا
 وُتِنَ شہ رگ پر چوٹ کھانا۔
 وَاتَتْهُ مُوَاتِنَةٌ چٹنا۔ دوسرے
 کی طرح کام کرنا۔ وَاتَنَ الْمَكَانَ
 کسی جگہ بہت دیر ٹھہرنا۔
 اسْتَوْتَنَ الْمَالُ مویٹی کا موٹا ہونا۔
 الْوَاتِنُ فاکسی جگہ ہمیشہ رہنے والا
 ج: وُتِنَ۔
 الْوَتْنَةُ مقررہ کا پیچھا۔ مخالفت
 الْوَتَيْنِ مصر۔ دل کی رگ جس سے تمام
 رگوں میں خون جاتا ہے۔
 وَكَيْتَا يَتَا وَتَا اللحم صدر کا گوشت
 کو مرودہ کرنا۔ الْوَتَنُ کھوٹی
 کے سروں کو مڑوں سے چڑا کرنا۔
 اَوْتَاءَ بیدار۔ ہاتھ میں موج ڈالنا۔
 وَثَبْتَ تَوْتًا وَتَاءً وَوْتَاءً وَ
 وَتُوًّا وَوْتَتًا بیدار۔ ہاتھ
 میں موج آنا۔ صفت وَثَبَةٌ وَ
 مُوْتُوَّةٌ وَوَتِيَّةٌ۔
 وَتُوٌّ يُوْتُوُّ وَتَاءً وَوْتَاءً موج آنا۔
 الْوَتَاءَةُ وَالْوَتَاءُ موج
 الْوَتِيُّ لڑنے پر لے ہاتھ والا۔
 الْبَيْتَاءَةُ مینج ٹھوکنے کا آلہ
 وَكَبَّ يَكِبُّ وَتَبَّكَ وَوَتَبَّكَ وَوَتَبَّكَ
 وَوَتَبَّكَ وَوَتَبَّكَ وَوَتَبَّكَ
 اُسٹھا کھلنا۔ کھلنا۔ پھانڈنا
 وَكَبَّ إِلَى الشَّرَفِ وَتَبَّكَ شرف
 تک ایک دم پہنچنا۔
 وَتَبَّكَ تَوْتَبَّكَ گدی پر بٹھانا۔
 بیٹھنے کے لئے گدی بچھانا۔
 اَوْتَبَّكَ اِيْتَابًا کودنا۔
 وَثَبَةُ مُوَاتِنَةٌ جلدی سے لڑ
 پڑنا

تَوْتَبَّكَ عَلَيَّ فِي ارْمَنِ جائداد پر ظلم
 سے قبضہ کرنا۔
 تَوَاتَبَ الْقَوْمُ ایک دوسرے پر
 حملہ کرنا۔
 الْوَتَابُ تحت بستر بیٹھنے کی جگہ۔
 الْوَتْبُجِي بہت کودنے والا۔
 الْوَتْبَابُ بہت کودنے والا۔
 الْمَيْتَبُ کودنے والا۔ بیٹھنے والا۔
 الْمَذَرِيں رزم زمین۔ ندی
 الْمَوْتَبَانِ امن پسند بادشاہ
 وَتَبَّكَ يُوْتَبُّ وَوَتَبَّكَ گارٹھا ہونا
 — الْفَرْسُ گھوڑے کا موٹا ہونا
 — الْمَكَانُ کسی جگہ کا بہت
 گھاس دالی ہونا۔ صفت (وَتَبَّج)
 اَوْتَبَّجَ اِيْتَابًا زیادہ کرنا۔
 اسْتَوْتَبَّجَ الْمَالُ مال کا بہت ہونا
 مِنْ الْمَالِ مال زیادہ لینا۔
 الْفَرْسُ گھوڑے کا موٹا اور گھٹے
 بدن کا ہونا۔ الْمَتَبَةُ نباتات
 کا گھٹا اور گنجان ہونا۔
 الْوَتَبَةُ گارٹھا۔ گھٹے بدن کا۔
 وَتَبَّكَ وَتَبَّكَ گفٹنا ہوا کپڑا
 الْوَتَبَجَةُ بہت درختوں والی زمین
 گنجان۔ درختوں والی زمین۔
 اَرْضٌ مُوْتَبَجَةٌ وَوَتَبَجَةٌ
 بہت گھاس والی زمین۔
 الْمَوْتَبَجَةُ مِنَ الْتَبَابِ رزم ناوٹ
 کا کپڑا۔
 الْوَتَبَجَةُ پانی کی تری۔
 الرَشِيخَةُ گارٹھا دودھ۔ چربی دار
 رزم بڈی۔ سرسبز گنجان گھاس کھجڑ
 والی زمین رجل مُوْتَبَجُ الْخَلْقِ
 وَوَتَبَجُ رزم ورجم والا۔
 وَتَبَّكَ يُوْتَبُّ وَوَتَبَّكَ الْفَرَّاشُ
 بچھونے کا ملام ہونا۔ صفت:

وَتَبَّكَ لَحْمُهُ پر گوشت بہنا۔
 الرجل۔ موٹا ہونا۔
 وَتَبَّكَ يُوْتَبُّ وَوَتَبَّكَ الْفَرَّاشُ
 بستر کو نرم و ملائم کرنا۔
 اسْتَوْتَبَّكَ الْفَرَّاشُ بستر کو نرم و
 ملائم پانا۔ مِنَ الْمَالِ مال بہت
 مانگنا۔ لینا۔
 الْوَتَبَةُ فاکس ثابت قدم
 الْوَتَبَةُ قسم کی طرح لبائی میں کاٹا
 ہوا چمڑا۔ صدری کے مانند چمڑے
 کا لباس۔
 الْوَتَبُ سب کپڑوں سے اوپر پہنے والا
 کپڑا۔ رزم بستر۔
 — وَالْمَيْتَبَةُ گھوڑے کی زین پر
 ڈالنے کا گدبلا ج۔ مُوَاتِنٌ وَمِيَاتِنٌ
 الْوَتَبُ وَالْوَتَبُ رزم و ملائم۔
 الْوَتَبَةُ مَوْنَةُ الْوَتَبُ بہت
 گوشت والی ج۔ وَتَبَّكَ وَوَتَبَّكَ
 الْوَتَبُ رزم بستر۔
 الْوَتَبَةُ وَالْوَتَبَةُ بستر یا فرش کی
 ملائم۔
 الْمَوَاتِنُ الْمِيَاتِنُ درندوں کی کھالیں
 ریشم و بیاج کی بنی ہوئی
 وَتَبَّكَ يُوْتَبُّ وَوَتَبَّكَ راسے۔ سر
 توڑنا۔
 الْوَلْعَةُ مِنَ الْمَطَرِ تھوڑی بارش
 الْوَلْبِيَّةُ موسم بہار کی گنجان
 گھاس۔
 وَتَبَّكَ يُوْتَبُّ وَوَتَبَّكَ وَوَتَبَّكَ
 الْقَدَرُ لاندی کے لئے چمڑا بنانا۔
 وَتَبَّكَ يُوْتَبُّ وَوَتَبَّكَ وَوَتَبَّكَ
 بِلْدَانٍ اعتبار کرنا۔ بھروسہ کرنا۔
 صفت فاعل (وَتَبَّكَ) صفت مفعول (مَوْتَبَّكَ)
 وَتَبَّكَ يُوْتَبُّ وَوَتَبَّكَ الشَّيْءُ ثابت
 قوی ہونا مضبوط ہونا۔



وَتَقَى الْأَمْرَ مَضْبُوطًا كَرْنَا - الرجل
کسی کو معتبر جاننا - معتبر کرنا -
أَوْثَقَهُ أَيَّتَا - رسی سے مضبوط باندھا
وَأَثَقَهُ وَثَاقًا وَهُوَ أَثَقَمَةُ مَهَابَةٌ
تَوَثَّقَ الْقَوْمُ - باہم عہد پیمان کرنا
اسْتَوْثَقَ مِنْهُ - عہد و پیمان کرنا - یا
وثیقہ لینا - مِنْ الْأَمْوَالِ حَقًّا
میں بہا لے کرنا -
الْبَقِيَّةُ مِمَّ قَالِ بَعْدَ سِرِّهِ (واحد جمع مؤنث
مذکر سب یکساں) فَلَا تَذُوثُ فَلَا
بہادر سے
الْوَثَاقُ الْوِثَاقُ - باندھنے کی چیز رسی
وغیرہ ج - وَثَقُ -
الْوَثِيقُ مَضْبُوطٌ وَثَاقٌ -
الْوَثِيقَةُ - مؤنث الْوَثِيقُ - قابل
اعتماد کام کی مضبوطی - بہت گھاس والی
زمین ج - وَثَاقٌ -
الْأَوْثَقُ - اسم تفضیل مؤنث وَثَقُ
الْمَوْتُ وَالْوِثَاقُ - عہد ج - مَوَاتٍ
وَمَيَاتٍ وَمَوَاتٍ وَثَقٌ وَمَيَاتٍ
وَقَلَّ الْمَالُ - مال جمع کرنا - الشَّيْءُ
جبر کو مضبوط کرنا -
الْوِثَاقُ - کھجور کے ریشوں کی رسی -
چمڑے کا میل کچیل
الْوِثَاقُ - کھجور کے ریشوں کی رسی -
وَتَمَّ يَتَمُّ وَتَمَّ - الشَّيْءُ -
تروٹا - کوٹنا و تَمَّ المَطْلُ الاض
بارش کا زمین پر نذر سے برسنا -
الْفَرْسُ الْأَوْثَقُ - گھوڑے کا
زمین پر گھڑانا -
وَتَمَّتْ وَتَمَّ وَثَاقًا مَا الْحِجَارَةُ
رَجَلَهُ - پتھر کا پاؤں کو خون آلود
کرنا -
وَتَمَّ يَتَمُّ وَتَمَّ - الْمَكَانُ - جگہ
کام گھاس والی ہونا -

وَتَمَّ يَتَمُّ وَتَمَّ وَثَاقًا - پُر گشت
اور گھسیلے بدن کا ہونا - صفت
(وَتَمَّ يَتَمُّ)
وَأَتَمَّ مَوَاتٍ - فِي الْعَدُوِّ - دوزخ
الْوِثَمَةُ - پتھر - چھتا کا پتھر -
گھاس یا نباتات کا ڈھیر -
الْوِثَمُ - قَلْتُ - کئی حُفَّ مَثْنِمْ
بہت پامال کرنے والا کھڑ -
وَتَمَّ يَتَمُّ وَتَمَّ وَثَاقًا - عہد پر چمڑا
ثابت رہنا -
أَوْثَقْتُ أَيَّتَا - بہت بخشن کرنا
بہت عطیہ دینا - مِنْ الْمَالِ - بہت
مال لینا -
اسْتَوْثَقْتُ اسْتِثْنَانًا - الشَّيْءُ - باقی
رہتا - مضبوط ہونا - مِنْ الْمَالِ -
بہت لینا -
الْوِثَاقُ - فَا - قائم و ثابت ج -
وَتَمَّ -
الْوِثَاقُ - بہت ج - اَوْثَانٌ وَوِثَاقٌ
وَوِثَاقٌ وَوِثَاقٌ -
الْوِثَاقُ - بہت پرست -
وَتَمَّ يَتَمُّ وَتَمَّ وَثَاقًا - پیدہ - ہاتھ
میں مویج اُجھانا -
أَوْثَقُ أَيَّتَا - الرَّجُلُ - زخمی جانور
دالا ہونا -
الْوِثَاقُ - مویج - الْوِثَاقُ - تکلیفیں -
الْمِثَاقَةُ - مویج - ہتھوڑا -
وَجَرَّ يَجُرُّ وَجَّ - جلدی کرنا -
الْمَوْجُ - مصر - تیزی - شتر مرغ -
بھٹ تیز - بل کی کڑی - ایک دوا
وَجَّ يَجُرُّ وَجَّ وَجَّ وَجَّ
فَلَانًا بِالْمَسْكِينِ اَوْثَقَهُ
چھری یا ہاتھ سے مارنا صفت مفعول
مَوْجُوٌّ وَوَجَّ وَجَّ اَوْثَقَهُ اَوْثَقَهُ
الشَّيْءُ - کھجور کوٹنا -

وَجَّ يَجُرُّ وَجَّ وَجَّ - الْبَلَدُ - اندھا
کنواں پانا -
أَوْجَارَتِ - الْبَلَدُ - کنویں کا پانی ختم
ہونا - أَوْجَارَتِ الرَّجُلُ - کسی
کا ناکام ہونا -
فَلَانًا عَنَّهُ - دور کرنا - ہٹانا -
اِتَّجَاءُ التَّمْرِ - کھجور کا گودے دار
ہونا -
الْوَجَّ وَالْوَجَّ وَالْوَجَّ
اندھا کنواں
الْوَجَّ - گائے - کھجور - بڈی
اور گھسی سے تیار کردہ کھانا -
وَجَبَّ يَجِبُ وَجُوبًا وَجِبَةً
الشَّيْءُ - نہایت و لازم ہونا -
(وَجِبَةً) الْخَاطِطُ وَنَحْوُهُ
دیوار وغیرہ کا زمین پر گرنا -
الرَّجُلُ - دن میں ایک ہی دفعہ
کھانا -
(وَجَبًا وَجُوبًا) الرَّجُلُ
گرنا اور مرنا - کہتے ہیں - وَجِبَةً
فَوْجَبَ - ضرب کھا کر ماریا -
گرنا - فَلَانًا عَنَّهُ - پیچھے ہٹانا
وَجِبَتِ الشَّمْسُ - سورج کا
دوبنا - اَلْعَيْنُ - آنکھ کا گڑھے
میں بیٹھنا -
وَجَبَّ وَجَبًا وَجِبًا وَجِبَانًا
الْقَلْبُ - دل دھڑکنا -
وَجَبَّ يَوْجَبُ وَجُوبًا
بُرُودِ - دل ہونا - وَجَبَ - دن میں
صرف ایک مرتبہ کھانے کو کھانا -
— ۵ — دن میں ایک مرتبہ کھانے
کا عادی بنانا — اَلنَّاقَةُ
دن رات میں صرف ایک مرتبہ
ادنیٰ کو دوہنا — اَلْأَمْرُ
علینہ - لازم کرنا —



بہ اکر حصّہ زمین پر گرا دینا۔
وَجِبَتِ الْإِبِلُ - اونٹ کا ٹھکانا۔
وَجِبَ الْبَاقِي شَرَعَ النَّاقَةِ
کھین کا تھن میں جم جانا۔
الْبَعِيرُ - اونٹ کا بیٹھنا۔
أَوْجِبَ الْإِجَابَ - فُلَانٌ حَقُّهُ -
کسی کے حق کی رعایت برتنا۔

الْشَّيْءُ - کسی چیز کو واجب جاننا یا
کرنا۔ أَوْجِبَ الْبَيْعَ - بیع لازم کرنا۔
الرَّجُلُ - دن میں صرف ایک مرتبہ
کھانا۔ ایسا کام کرنا جس سے انسان
دور بخ یا جنت کا سزاوار ہو۔
اللَّهُ قَلْبَهُ - دل کو دھڑکانا۔
وَاجِبَةٌ دِيَارٌ وَمَوَاجِبَةٌ -
لازم کرنا۔ تَوْجِبَ - دن میں ایک
مرتبہ کھانا۔

تَوَاجِبُوا - باہم شرط کرنا
اِسْتَوْجِبَ اسْتِجَابًا - اِشْیَءٌ - کسی چیز کا
حق دار ہونا۔ کسی شے کو واجب و لازم
جاننا۔

الْوَجِبُ - چمڑے کی بڑی مشک - ج۔
وَجَابَ رَدُّ الْوَجَابِ وَالْوَجَابَةُ
بزول - قَلْبٌ وَجَابٌ - بہت دھڑکنے
والا دل۔

الْوَجِبُ - گھوڑ دوڑ کی شرط۔
الْوَجِبَةُ - دھماکہ - دن۔
الْوَجِبَةُ - دھماکے کے ساتھ گزنا۔
ج۔ وَجَبَاتٌ -

الْوَجِبَةُ - وظیفہ بیع کو واجب کرنا۔
خِزَانَةُ الْإِسْلَامِ -

وَاجِبُ الْوُجُودِ - ضروری ہستی۔ اپنی ذات
میں موجود۔ بِاتِّقَانٍ بِالذَّاتِ (خدا)
الْمُوجِبُ - نا۔ باعث۔ سبب۔

الْمُوجِبُ - مفعول۔ من الكلام۔ وہ کلام
جس میں نہ نفی ہو نہ نہی اور نہ استفہام۔

الْمُوجِبَةُ - بڑی نیکی یا بڑا گناہ۔
الْمُوجِبُ - موت۔ ج۔ مَوَاجِبُ -
الْمُوجِبُ - موت کی جگہیں۔
وَجِبَ - اِشْیَءٌ - چیز کا ظاہر ہونا۔
أَوْجَحَ - ظاہر ہونا۔ الْخَافِضُ - کھینٹنے
والے کا چکنی چٹان تک پہنچنا۔
الْمُبِجَرُ وَالْمُبِجَرَةُ - منہ میں دوا ڈالنے
کا آلہ۔

الْمُبِجَرُ - گیند کو مارنے کا بلہ۔
وَجَنَ يَجْنُ وَجْنًا - الكلام - کلام کو مختصر کرنا۔
رَوَّجَنَ يَرْجِنُ وَجْنًا أَوْ دَجَانًا
وَجُونًا - الرجل في منطقه مختصر
گفتگو کرنا۔

وَجَنَ يَوْمَنَ وَجَانًا - الكلام - کلام کا
مختصر اور ہلکا ہونا۔

أَوْجَنَ الْإِجَابَةَ - الكلام - کلام کا مختصر ہونا
الكلام وفي الكلام - مختصر ہونا۔
الْعَطِيَّةُ - عطیہ بنا کر دینا۔ تَوْجَنَ اِشْیَءٌ
حاجت پورا کرنے کے لیے درخواست کرنا۔

اِسْتَوْجَنَ اِسْتِجَابًا - الكلام - کلام میں
زواہد کو حذف کرنا۔ الْوَجْنُ - الرَّجُلُ
وَجْنًا - جلدی کرنے والا۔ پھرنیلا۔
رَوَّجِنَ وَالْوَجْنُ - ہلکا اور مختصر
مِنَ الْكَلَامِ مختصر اور جلد سمجھ میں آنے والا
کلام۔

الْمُبِجَرُ - مختصر کلام کرنے والا۔
وَجَسَ يَجِسُ وَجَسًا - پوشیدہ ہونا۔
وَجَسَتِ الْأَذُنُ كَانُ كَأَسْبَاطِ مَسُوسٍ
کرنا۔ رَوَّجَسًا وَجَسَاتًا - سنی ہوئی
بات سے ڈر محسوس کرنا۔

أَوْجَسَ الْإِجَابَةَ - الرَّجُلُ - محسوس کرنا۔
دل میں چھپانا۔

أَوْجَسَ الْقَلْبُ فَرْغًا - دل کا گھبراہٹ
محسوس کرنا۔ أَوْجَسَتِ الْأَذُنُ -
کان کا آواز سُنانا۔

تَوَجَّسَ - آہستہ آواز پر کان لگانا۔
الطَّعَامُ أَوَالِشْءٍ تَقَوَّرًا تَقَوَّرًا كَهَانَ
یا پینا۔ فَرْغًا - گھبراہٹ محسوس کرنا۔
الصَّوْتُ - ڈر سے سُنانا۔
تَوَجَّسَتِ الْأَذُنُ - کان کا آواز سُنانا۔
الْوَجَسُ - ہلکا۔ پوشیدہ آواز۔ دل کی
گھبراہٹ۔

الْوَجَسُ - دل میں آنے والا خیال۔
الْوَجَسُ - تھوڑی خورد و نوش۔ زمانہ۔
لَا أَذُنًا بِمِثْلِ الْوَجَسِ -
میں اس کو کبھی نہیں کروں گا۔

وَجَعَ يَوْجَعُ وَجَعًا - بیمار ہونا۔ درد مند
ہونا۔ وَجَعَ فُلَانٌ لِسَانَهُ وَوَجَعَ
فُلَانٌ لِسَانَهُ - فداں کے سر میں درد
ہونا۔

أَوْجَعُ الْإِجَابَةَ - دکھ دینا۔ تنکیر پہنچانا۔
تَوْجَعُ - شکایت کرنا۔ غم ظاہر کرنا۔
لما - نرم دل ہونا۔

الْوَجَعُ - بیماری۔ دکھ۔ ج۔ وَجَاعٌ
وَأَسَارٌ -

الْوَجَعُ - درد مند۔ ج۔ وَجَعُونَ -
وَجَعِي وَوَجَاعِي وَوَجَاعٌ وَأَوْبَاعٌ
مَوْتٌ وَجَعَةٌ ج۔ وَبَاعِي وَوَجَعَاتٌ
الْجَعَةُ - بھڑکی بنید۔

الْوَجَعُ - بہت تکلیف پہنچانے والا۔
الْوَجَاعُ - دُہر۔ ج۔ وَجَاعَاتٌ -

الْوَجَعُ - درد پہنچانے والا۔
وَجَفَ يَجِفُ وَجْفًا وَوَجِفًا وَوَجْفًا
اِشْیَءٌ - مضطرب ہونا (وَجِفًا) القلب

دل دھڑکانا۔ صفت وَجَافٌ وَأَوْجَفُ
رَوَّجَفًا وَوَجِفًا - الفرس -
گھوڑے کا تیز دوڑنا۔

صفت وَاجِفٌ -
أَوْجِفَتِ الْفَرَسُ - گھوڑے کو تیز دوڑانا
اِشْیَءٌ - حرکت دینا۔ مضطرب کرنا۔

الباب۔ دروازہ بند کرنا۔
استوجف۔ الحب فواد کہ محبت کا
دل کو چین لینا۔ ناقث میجاف نیز
دوڑنے والی اونٹنی۔

الوجیف۔ ہم۔ خوف سے گرنا۔

الوہاق والاباق۔ چولہا۔ فوج کی
ترتیب۔ ج وجات۔

وَجَلَّ يَوْسُفَ وَجَلَّ وَوَسَّيْلًا۔ ڈرنا یا
ڈر محسوس کرنا۔

وَجَلَّ يَوْسُفَ وَجَلَّ۔ ڈر میں بڑھ جانا۔

وَجَلَّ يَوْسُفَ وَجَلَّ۔ بوڑھا ہونا۔

وَجَلَّ مَوَاجِلَتَ فَوَجَلَّتْ۔ خوف
میں مقابلہ کرنا۔

أَوْجَلَّ۔ خوف زدہ کرنا۔

الْوَجَلَّ۔ خوف۔ ج۔ أَوْجَلَّ۔

الْوَجَلَّ۔ ڈرنے والا۔ ج۔ وَجَلُّونَ وَ

وَسَّيْلًا۔ مونث وجلت۔

الْوَجَلَّ۔ ڈرنے والا۔ مونث وجلت۔

الْوَجَلَّ وَالْمَوْجَلَّ۔ وہ گڑھا جس میں

پانی جمع ہو۔ الموجل۔ خوف کی جگہ۔

الْوَجَلَّ۔ بوڑھے۔

وَجَمَّ يَحْمَهُ وَجَمَّ۔ مکا مارنا۔

وَجَمَّ يَحْمَهُ وَجَمَّ۔ غصہ یا خوف کی

وجہ سے گفتگو سے عاجز رہنا۔ غم

کی زیادتی سے تشدد ہو کر سر جھکا لینا

صفت وَجَمَّ وَوَجَمَّ۔ وَجَمَّ

مَنْ الْكَلَامِ۔ ناپسند کر کے ہٹ جانا۔

الْبَشَى۔ کسی شے کو ناپسند کرنا۔ وَجَمَّ

لِفُلَانٍ مِّنْ كَذَا۔ کسی پر دل دکھانا۔

غَمَّ كَهَانًا۔

الْوَجَمَ۔ رَجُلٌ وَجَمَ۔ ردی آدمی۔

وجم سوچ بڑا آدمی۔

الْوَجَمَ۔ بخیل۔ کینہ۔ ہلکا پھلکا۔

الْوَجَمَ وَالْوَجَمَ۔ تیلوں یا قروں پر پڑنے

کا ڈھیر یا جنگلوں میں راستہ کے نشان۔

ج وَجُومٌ وَأَدْبَامٌ۔ بیت وَجَمَّ
وَجَمَّ۔ بڑا۔ گھر۔

الْوَجَمَ۔ اسم تفصیل۔ أَوْجَمَ الشَّيْءَ
ریت کا بڑا قطعہ۔

الْوَجَمَةُ۔ ایک مرتبہ کی خوراک۔

الْوَجَمَ۔ مِنَ الْإَيَّامِ۔ سخت گرم دن۔

وَجَنَّ يَجُنُّ وَجَنَّا۔ بالشيء۔ پھینکنا۔

الْوَتْدَ۔ کھوئی۔ بھونکنا۔ بھاگنا۔

زمین پر بچھاڑنا۔ انفضاض الثوب۔

دھوئی کا کپڑے کو کوٹنا۔

وَجَنَّ۔ الْعَجَلُ۔ چمڑے کو نرم کرنے کے

لیے کوٹنا۔

تَوَجَّجَ۔ ذیل و عا بڑھنا۔

الْوَجْنَةُ وَالْوَجْنَةُ وَالْوَجْنَةُ وَ

الْوَجْنَةُ وَالْوَجْنَةُ وَالْوَجْنَةُ

وَالْوَجْنَةُ۔ گالوں کا اچھڑا ہوا حصہ

رخسارہ۔ ج۔ وَجْنَاتُ۔

الْوَجْنُ وَالْوَجْنُ وَالْوَجْنُ۔ سخت

پتھر کی زمین۔

الْوَجِينِ۔ وادی کا کنارہ۔ سامنے کی تھڑی

اور قدرے اونچی زمین۔

الْوَجِينِ۔ سخت پہاڑ۔ بڑے رخساروں

والا۔ مَوْنَتٌ وَجْنَاءُ۔ ناقث وَجْنَاءُ

سخت اونٹنی۔

الْمَوْجِنِ۔ بڑے رخساروں والا۔ بہت

گوشت والا۔

الْمِجْنَةُ۔ دھوئی کی کپڑے کوٹنے کی موگڑی

ج مِجَانٌ وَمَوَاجِنُ۔

الْمَوْجُونِ۔ مغم۔ شمشدہ۔

وَجَمَّ يَجُمُّ وَجَمَّ۔ فلاں۔ منہ پر

مارنا۔ وجامت میں بڑھ جانا۔

وَجَدَ يَوْحَنَ وَجَاهَتَا۔ ذی وجامت ہونا

وَجَهَ۔ الی فلاں۔ کسی کی طرف جانا۔

الی فلاں۔ میجنا۔ لا المیر۔

باعزت بنانا۔

وَجَهَ الشَّيْءُ۔ چیز کو کسی کی طرف پھیر
دینا۔ المقوم الطريق قوم کا راستہ پر
چلنا اور نشان واضح کرنا۔ بعبدہ۔
کسی کا اپنے غلام سے کہنا کہ تو میرے
مرنے کے بعد آزاد ہے۔

المطر الاربع۔ بارش کا زمین پر ایک

روش سے پڑنا۔ اور زمین پر نشان ڈال

دینا۔ المفتح المحطی۔ ہوا کا کنگریاں اڑانا۔

العیت۔ میت کا چہرہ قبلہ کی طرف

کرنا۔

أَوْجَهَ أَيَّاهَا۔ الرجل وجہ بنانا۔ وجہ پانا۔

رد کرنا۔

وَأَمَّا وَجَاهَهَا وَمَوَاجِفَةً۔ آئنے سامنے

ہونا۔ تَوَجَّجَا۔ الیہ۔ متوجہ ہونا۔

قصہ کرنا۔ الجیش۔ فوج کا شکست

کھانا۔ الشیخ۔ بوڑھا ہونا۔

تَوَاجَهَ۔ الرجال اول المنزلة۔ دو

آدمیوں یا مکانوں کا آئنے سامنے ہونا۔

التَّجَهَ۔ الیہ۔ متوجہ ہونا۔ بہ مرائی۔

راستے سوچنا۔

الْوَجَهَ۔ ج۔ أَوْجَهَ۔ وَجُوهُ وَأُجُوهُ

چہرہ۔ وَجَمَّ الثُّوبَ وَنَحْوَهُ۔ کپڑے

وغیرہ کا سامنے کا پہلو۔ وَجَمَّ الدَّهْرَ

زمانہ کا شروع۔

الْوَجَهَ۔ مع جہت۔ قصد و نیت۔ وہ کام

جس کی طرف انسان متوجہ ہو۔ مرتبہ۔

وَجَمَّ الْكَلَامَ۔ کلام کا مقصود۔

رضامندی۔ فَعَلَ ذَٰلِكَ لَوَجْهِ اللَّهِ

اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ

کیا۔ ضَرْبَ دَبَّسَةِ الْأَصْرِ وَعَيْنَهُ

یعنی اس نے کام کی بھی تدبیر کی۔

مَضَى عَلَى وَجْهِهِ۔ وہ بے پرواہی

سے چلا۔ ابْيَعَضَ وَبَيْضَ

الْوَجْهِ وَجَمَّ۔ یہ اس وقت کہتے ہیں

جب کہ کوئی قابل تعریف کام کرے



اَسْوَدَ وَجْهَهُ اَوْ سَوَدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ
یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کوئی
قابلِ خدمت کام کرے۔ ج. وُجُوہ
قوم کا سردار۔ رَجُلٌ وَجْهٌ صاحب
عزت و زندہ آدمی۔

الْوَجْهَ - نور، قسم۔ لَيْسَ بِكَلَامٍ
وَجْهٌ، تمہارے کلام کے لیے کوئی
وجہ نہ تھی۔ لَهَذَا الْقَوْلِ وَجْهٌ
اس قول کا ماسد ہے۔ فَلَا اَنْ اَحْسِنُ
الْاَمْرَ وَجْهًا۔ فلاں قوم میں سب
سے اچھی حالت میں ہے۔ رَجُلٌ
ذُو وَجْهَيْنِ۔ وہ شخص جو خلاف
ضمیر نہ کرے۔

الْوَجْهَ وَالْوَجْهَ - حقوڑا پانی۔
الْوَجْهَ وَالْوَجْهَ - صاحبِ جاہ و مرتبہ۔
الْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ ج. جِهَاتٌ
وَجْهَاتٌ وَجْهَاتٌ وَالْوَجْهَةُ
وَالْوَجْهَةُ - جانب، گوشہ جس کی
طرف توجہ ہو۔

الْوَجْهَةُ - مرتبہ، عزت۔
التَّوَجُّهَ - م. فی علم العروس - رومی مقید
کے ماقبل حرکت کی حرکت کا اختلاف۔
رومی مطلق اور تائیس کا درمیان۔

هُمْ وَجَاہٌ اَیْفَ - وہ ہزار کے قریب ہیں
کہا جاتا ہے۔ وَجَاہٌ وَجَاہٌ
وَوَجَاہٌ وَتَجَاہٌ وَتَجَاہٌ
وَتَجَاہٌ - سامنے، مقابل۔

الْوَجْهَ - قوم کا سردار۔ صاحبِ دہانت
ج. وَجْهَاءُ مَوْتٌ وَجْهَةٌ - ج۔
وجہات و جاہہ۔ الْوَجْهَ
مَنْ الْاَلْسِنَةِ دُرُغْنِ پادار۔

الْوَجْهَةُ - مَوْتٌ الْوَجْهَ - ایک دو
کون سا کہ جس کو نظر بد سے بچنے کے
لیے یا حصوں عزت نامہ گردن میں
نشانہ ہے۔

الْوَجْهَ - اسم تفضیل ہو اَوْجْہَ تو م
وہ قوم میں سب سے زیادہ دہانت
کا مالک ہے۔ کہتے ہیں۔ نَظْرُ دَا
اَلْاَوَّلِ بَاوَجْہِ سُوْرَ۔ انہوں نے میری
طرف سے بڑی نظر سے دیکھا۔

الْمَوْجْہَ - مرتبہ والا۔ مِنَ الْکِسَاءِ -
دور زنی پادار۔ شَیْءٌ مَوْجْہَ - ایک
دُشک پر بنی ہوئی چیز۔
السَّوَابِغَ - م. ملاقات۔ تَعْرِیْفَ - وَجْہِ
یعنی وَجْہِ - الرَّجُلِ - کسی کو شکایا
وَجْہِ یَوْجِی وَجْہِ وَتَوْجِی - الماشی - ننگے

پاؤں ہونا یا چلنے سے پاؤں گھسنا۔
صفت و ج. وَجْہِ مَوْتٌ وَجْہِ
وَوَجْہِ -

اَوْجِی اِجْہَ - پاؤں گھسنا۔ دینا۔ علیہ
نکل کرنا۔ عَن کَذَا - اعراض کرنا۔
اَشْیَ دُرُغْنِ - فلاں۔ مابست سے
پھیر دینا۔ اَوْجِی تَعْرِیْفَ -
فلاں میں نے تم سے فلاں کے ظلم
کو دور کر دیا۔ اَوْجِی الرَّجُلِ - مابست
کے لیے آنا اور ناکام واپس ہونا۔

سَأَلَ سَاجِدَةً فَوَجْہِ - اس نے حاجت
کا سوال کیا اور محروم رہا۔ الْمَوْجْہَ
بھولی بوری۔ الْوَجْہِ - ناکارہ۔
وَجْہِ یَوْجِی وَجْہِ - پناہ لینا۔ اَوْجْہَ
پناہ دینا۔

وَحْدَ یَحْدُ وَحْدًا اَوْ وَحْدَةً وَحْدَةً
وَوَحْدَةً وَوَحْدَ یَحْدُ وَوَحْدَةً
وَوَحْدَةً - اکیلے ہونا۔ صفت و مَبْدُ -
وَحْدَ تَوْجِیْدُ اَوْ اَحْدَ - ایک بنانا۔
وَحْدَ اللّٰہِ تَعَالٰی - ایک خدا پر ایمان
لانا۔ یَکُنَا کُنَا - یا کا الہ اکا اللہ -
کہنا۔

اَوْحَدَ یُوحِدُ - اکیلے ہونا۔
لَا تَانِ بَانَا - اَوْحَدَ لَلَا تَانِ

دشمن کے سامنے اکیلے ہونا۔
اَوْحَدَ تِ الشَّاتِ - بکری کا
ایک بچہ بننا۔ صفت۔ مَبْدُ
تَوْحَدَ - اکیلے ہونا۔ بواہر راستے
میں تنہا ہونا۔ تَوْحَدَ
بِالْفَضْلِ - کسی پر دوسرے کو
کرنا اور اس کو دوسرے کے
پیر کرنا۔

التَّحَدَ - الشَّیْثَانِ - دو چیزوں کا ایک
ہونا۔ اَلشَّیْءُ اَلشَّیْءُ ایک چیز کا
دوسری چیز سے ملنا۔ جُرْثَا -
القَوْمَ - لوگوں کا متنق

ہونا۔
الْوَحْدَ مَرَّ رَأً یَنْتَہَ وَحْدًا کَا اَوْ
جَاءَ دَمْدَمَ میں نے اس کو
تنہا دیکھا یا وہ تنہا اور اکیلے آیا۔
جَاءَ دَمْدَمَ اَوْ دَعَلَى وَجْہِ -
وہ اکیلے آیا۔

جَلَسُوا وَحْدَ هُمْ وَ عَلٰی
وَحْدِ هُمْ - وہ اکیلے بیٹھے۔
الْوَحْدَ اِنِّی - اکیلے۔

الْوَحْدَ اِنِّی تَتَّ - وحدانیت۔
اکیلے ہونے کی حالت۔
الْحَدَّةَ - م. بَقِیْ عَلٰی حَدِّ تَبَا
وہ عہدہ باقی رہا۔

فَعَلَهُ عَلٰی ذَاتِ حَدِّ تَبَا -
وَمِنْ ذَاتِ حَدِّ تَبَا -
وَمِنْ ذٰی حَدِّ تَبَا -
اس نے اُس کو خود بخود اپنی
تنہا رائے سے کیا۔
الْوَحْدَ تَبَا - م. تنہائی۔

الْوَحْدَ وَالْوَحْدَ - اکیلے۔ مَوْتٌ
وَحْدَ تَبَا - اکیلے۔
الْاَمَدَ - اکیلے۔ لَاشَانِ - بے نظیر
لفظ اسد و موتوں پر دہانت

مرادف ہو کر آتا ہے۔

(۱) وصف باری تعالیٰ میں کہتے ہیں

هُوَ الْوَاحِدُ وَهُوَ الْإِحْدُ -

(۲) اسمائے حمد میں کہتے ہیں۔

أَحَدٌ وَعَشْرُونَ وَوَاحِدٌ وَ
عَشْرُونَ - لفظ احد مذکر کے
لیے آتا ہے اور کبھی مونث کے لیے
بھی لے آتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

لَسْتُكَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ
ایسے موقع پر نشی کے معنی دیتا ہے
أَحَدٌ کی تائید۔ اَحْدَى بنات
طبق مصیبت۔ سائب۔ کہتے
ہیں هُوَ ابْنُ أَحَدِاهَا۔ وہ شریف
ماں باپ کا ہے۔ يَوْمُ الْإِحْدِ
اتوار کا دن۔ ج احاد۔

الْوَاحِدُ - ایک۔ مونث واحدة -
نشین واحدان ج واحدون
ثانی۔ هو واحد قومہ وہ اپنی
قوم میں لاثانی ہے۔

ج وَحْدَانٌ وَأَحْدَانٌ -
کبھی عدد کی صفت بن کر آتا ہے
تو کہتے ہیں الْفَتْ وَاحِدٌ وَعَشْرَةٌ
واحدة -

الْوَجِيدُ - اکیلا۔

الْأَوْحِدُ - وحدانیت والا۔

اللَّهُ الْوَاحِدُ - اللہ وحدانیت
والا۔ هُوَ أَوْحَدُ أَهْلِ زَمَانِهِ
وہ اپنے زمانے میں بے نظیر ہے۔
ج أَخْدَانٌ - لَسْتُ فِي هَذَا
الْأَمْرِ بِأَوْحَدٍ - میں اس کام میں
اکیلا نہیں ہوں۔

وَحَادٌ وَأَحَادٌ وَمَوْحَدٌ - ایک ایک
کر کے۔ واحد واحد سے معدول ہے۔
النَّوْجِيدُ - اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا
اعتقاد۔

الْمَوْحِدُ - نا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
کا اعتقاد رکھنے والا۔

الْمَوْحَدُ - من الحروف ایک نقط
والا حرف۔ جیسے (ب)

المبيحاذ - اکیلا۔ ج مَوَاحِيدُ
وَحْيٍ يَحْرُ وَيُوسِرُ وَيُيَسِّرُ وَشَرًّا
عليه - سخت تارائن ہونا۔ سینہ کا
کینہ سے بھر جانا۔ صفت دَحْرٍ -

وَحْرٍ يَذْخَرُ وَحْرًا - خوراک کا چھپکلی
کی مانند کپڑے سے زہر اکود ہونا
یا اس کپڑے کی خراب کردہ خوراک
کھانا یا پینا۔ صفت دَحْرٍ -

أَوْحَرَكَ - تارائن کرنے والی باتیں
سننا۔ أَوْحَرَتِ الْوَحْشَةُ
الطعام - چھپکلی جیسے کپڑے
کا خوراک کو زہر اکود کرنا۔

الْوَحْرُ - کینہ۔ سخت غصہ۔ دل کا کھوٹ
الْوَحْرُ - ہم غصہ۔ کینہ۔ سینہ کی
سوزشیں۔

الْوَحْرَةُ - چھپکلی کی مانند ایک زہریلا
کپڑا۔ بد شکل بیستند عورت یا
اونٹ۔ ج دَحْرٍ -

وَحْشٌ يَحْشُ دَحْشًا وَوَحْشٌ -

ثَوْبٌ أَوْ سَلَاخٌ كُطِرَ أَيْ سَقِيًا
خوف کیوجہ سے پھینک دینا۔

أَوْحَشَ إِيجَاشًا - المكان - جگہ کا ویران
ہونا۔ اجڑنا۔ المكان - اجاڑ یا خالی
پانا۔ الرجل - بھوکا ہونا۔ زاد ختم
ہونا۔

الرجل - تنہائی اور وحشت محسوس
کرنا۔

تَوَحَّشَ - وحشی کے مانند بھوک سے
خالی پیٹ ہونا۔ کپڑے پھینکنا۔

المكان - ویران ہونا۔

اسْتَوْحَشَ - وحشت محسوس کرنا۔

کسی سے مانوس نہ ہونا۔ المكان -
جگہ کا اجاڑ اور ویران ہونا۔

الْوَحْشُ - ہم۔ جنگلی جانور۔ ج -
دَحْشٌ وَوَحْشَانٌ - واحد۔

دَحْشٌ - لَقَرٌ الْوَحْشُ - نیل
گائے۔ مَشَى فِي الْأَرْضِ وَشَشَا
وہ تنہا گیا۔ بَاتَ وَشَشَا - اُس نے
بھوکے پیٹ رات گزاری۔ هُوَ مِنْ
وَحْشِ النَّاسِ وہ رذیل لوگوں میں
سے ہے۔

الْوَحْشَةُ - غلوت۔ خوف یا تنہائی کی
دہ سے طبیعت کا انقباض۔ غم
علیحدگی۔ دل کی محبت سے دوری
ویران زمین۔

الْوَحْشِيُّ - ج وحش۔ جنگلی جانور۔
دایاں پہلو۔ لوگوں سے الگ رہنے
والا۔ من القویں۔ کمان کی پلیمہ۔

الْوَحْشِيُّ مِنَ الْبَيْنِ - جنگلی انجیر۔
الْوَحْشِيَّةُ - مونث الْوَحْشِيُّ - تیز ہوا
الوحش - وحشی جانور۔ المجانب
الوحش - دایاں پہلو۔

الْوَحْشَانُ - اُداس۔ ج دَحْشَانِي
أَرْضٌ مَوْحُوشَةٌ - جنگلی جانوروں
والی زمین۔

وَحْفٌ يَحْفُ وَحْفًا - البعير أو
الرجل - زمین پر گر پڑنا۔ بٹھنا
مُنًا - کسی سے قریب ہونا۔ الیہ
کسی کا قصد کرنا۔ الی کذا۔ جلدی
جانا۔

وَحْفٌ يَوْحِشُ وَحْفًا وَوَحْفٌ
يَوْحِفُ وَحَافَةٌ وَوَحُونَةٌ -

الاشعر والنبات - بالوں یا نباتات
کا گھٹنا ہونا۔
دَحْفٌ - جلدی کرنا۔ زمین پر گرنا۔
فَلَانًا - کسی کو لائٹی سے مارنا۔

وَحْفٌ يَوْحِشُ وَحْفًا وَوَحْفٌ
يَوْحِفُ وَحَافَةٌ وَوَحُونَةٌ -

الاشعر والنبات - بالوں یا نباتات
کا گھٹنا ہونا۔

دَحْفٌ - جلدی کرنا۔ زمین پر گرنا۔

فَلَانًا - کسی کو لائٹی سے مارنا۔



أَوْحَفَ إِيمَانًا - جدی کرنا۔

أَوْحَفُ - ہم - خوبصورت سیاہ گھنے بال - تازہ گھاس - (دالواحف) من الأجنحة - گنجان بالوں والا بازو۔

أَوْحَفُ - خوبصورت گنجان بال۔

أَوْحَفَةٌ - وحف کا اسم مرہ - سیاہ پتھر - کالی ادبچی گول زمین - آواز۔

وَحَاف - الوُحَفَاءُ - من الأراضی - سیاہ پتھر والی زمین - سُرخ زمین - ج۔

وَحَافِي - المَوْحِف - اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔

ج مَوَاحِفُ بَعِيْرٌ مَوْحِفٌ لاغر اونٹ۔

المِيْحَاتُ - من النوق - اپنے تھان پر رہنے والی اونٹنی ج مَوَاحِفُ۔

وَحَلٌ يُوْحَلُ وَحَلًا وَمَوْحَلًا - کیچڑ میں پڑنا۔

أَوْحَلَهُ - کیچڑ میں گرانا - کشتہ برائی میں پھنسانا۔

وَأَحَلَهُ مَوْاحِلَةً - کیچڑ میں گھسنے میں مقابلہ کرنا۔

أَتَحَلَّ أَتَحَالًا - فی عیتہ - شریبہ قسم کھانا۔

تَوَحَّلَ - کیچڑ میں تھپڑنا - (واستوَحَلَ) مکان۔

ج مَوَاحِلُ - جگہ کا کیچڑ والی ہونا۔

أَوْحَلٌ - کیچڑ - ج أَوْحَالٌ وَوُحُولٌ

الْوَحْلُ - کیچڑ میں نظر ہونا۔

المَوْحِلُ - کیچڑ کی جگہ - کیچڑ میں گرنا۔

وَحَمَّتِ الْمَرْأَةُ تَحْمًا وَتَوْحَمًا

وَحَمًا وَتَوْحَمَتٍ - حاملہ عورت کا بعض چیزوں کے کھانے کا خواہشمند ہونا۔

کھانے کی خواہش بدلنا یا کم ہونا۔

صفت (وَحَمِي) ج وَحَامٌ وَوَحَامِي - کہتے ہیں وَحَمِي

وَالْحَبْلُ - یہ اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو بغیر حاجت و ضرورت کے سوال کرنے کا بہت عادی ہو۔

وَحِمَةٌ - الشئ - کسی چیز کی خواہش کرنا۔

وَحَمْتُ وَحَمَةٍ - ارادہ کرنا۔

وَحَمٌ - العَبْلِي - حاملہ کو اس کی خواہش کے مطابق کھانا۔

لَحْمًا - حاملہ کی خواہش کے مطابق ذبح کرنا۔

المَوْحَمُ - ہم - حاملہ عورت کی خواہش پرندہ کے اُڑنے کی آواز۔

لَيْلَتَا ذَاتِ وَحْمٍ - بہت گرم رات۔

الْوَحَامُ وَالْوَحَامُ - حاملہ کی خواہش۔

المَوْحِمُ - سنت گرم دن۔

وَحْنٌ - يَحْنُ وَوَحْنٌ يَوْحَنُ وَحْنًا وَحْنًا عَلَى فُلَانٍ - کسی سے کینہ رکھنا۔

تَوَحَّنٌ - ذلیل ہونا۔ ہلاک ہونا۔ بڑے بیٹ والا ہونا۔

أَوْحَنَةٌ - پھسلانے والی کیچڑ۔

وَحْوَحٌ - گلو گزرتے آواز۔ نکالنا شدت سردی کی وجہ سے ہاتھوں میں پھونکنا اور اُح اُح یا حَوْحَوْحُ کرنا۔

تَوَحَّوْحٌ - الظليم فوق البقيع - شہر مرغ کا انڈوں سے الفت کرنا۔

المَوْحُوْحُ وَالْمَوْحُوْحُ - توی پھونکنے والا کتا۔

المَوْحُوْحُ - چیت - پیرتلا آری - ہکا

چیکا - ج وَحَارُحٌ - المَوْحُوْحُ - سردار و رئیس۔

ج وَسَاوَحٌ - وَحِي يَحِي وَحِيًا - الی فلان - اشارہ کرنا

پیغام پہنچنا۔ الیہ اودحی الیہ

کلامًا - پوشیدہ بات کہنا۔ اللہ

فی قلبہ کذا - خدا تعالیٰ کا کسی کے دل میں کچھ ڈالنا۔

الذَّبِيْحَةُ - جلد ذبح کرنا۔ روحی

وَدَحِي وَوَحَاءٌ وَتَوَحَّى - جدی کرنا۔

أَوْحَى إِلْحَاءً - الی فلان - اشارہ کرنا۔

دوسروں سے چپکا کر بات کرنا۔

برائگیختہ کرنا۔ اللہ الیہ بکذا۔

المہام کرنا۔ الکتاب - لکھنا۔ نفسہ

دل میں خوف واقع ہونا۔ المرجل

مقابلہ کے بعد بادشاہ ہونا۔ المقوم

چلانا۔ العمل - کام میں جدی کرنا۔

المدواء الموت دوا کا موت جلد واقع کرنا۔

وَدَحِي تَوَحِيَةً - ذبیحہ کو جلد ذبح کرنا۔

وَدَحِي وَوَحَاءٌ - جدی کرنا۔

وَدَحِي الدوا الموت دوا کا موت کو جلد لے آنا۔

تَوَاحَى تَوَاحِيًا - القوم - ایک دوسرے کے ساتھ جدی کرنا۔

أَسْتَوْحَاكَ - پکارنا - جدی کرنا۔

الشئ - پوچھنا۔

الوحي - ہم - لکھا ہوا۔ پیغام۔ المہام

المہام کردہ چیز۔ انبیاء کی وحی۔

رمز - اشارہ (وَالْوَحَايَةُ) آواز۔

الوحي - آواز عجبیت - بڑا سردار۔

بادشاہ۔ آگ۔ ج وَحِي -

کہا جاتا ہے الوحي الوحي -

جدی کرو۔ جدی کرو۔

المَوَاحِي - ناج و آخون و وَحَايَةً -

المَوَاحِي - بہت جدی۔ موت وَحِي

جدی کی موت۔

وَحَدٌ يَحْدُ وَحْدًا وَخَيْدًا وَ

وَحْدًا - البعير - اونٹ کا تیز



وَحَطَّ فِي الْبَيْعِ - تجارت میں کمی
نفع اور بھی نقصان اٹھانا۔
وَحَطَّ - سر کے بالوں کا کچھڑا ہونا۔
الْوَحَاظُ - تیز اور کشادہ قدموں سے چلنے
والا۔ پار ہونے والا تیز۔
الْمِيحَطَّ - چھیدنے والا پار ہونے والا۔
وَحَفَّ يَحْفُ وَحْفًا - السَّوِيْقُ - ستو کو
پانی ڈال کر لیس وار کرنا۔ گوندھنا۔
السَّوِيْقُ - ستو کا لیسدار ہونا۔ گوندھنا۔
الرجل - کسی کو بُرائی سے یاد کرنا۔
وَحَفَّ وَادَّحَفَّ - السَّوِيْقُ - ستو کو
گوندھنا۔ جو احمق خود اپنی بات کو نہ
سمجھے اس کے حق میں کہتے ہیں۔ اِنَّ
لِلْوَحْفِ فِي الطَّيْنِ۔
اَتَّخَفْتُ - رجلہ۔ پاؤں پھسلنا۔
الْوَحْفَةُ - چڑے کا قید۔
الْوَحِيفَةُ - گندھا ہوا ستود وغیرہ۔
الْمَوْحِفُ - احمق۔
الميحف - ستو بھگونے کا برتن۔
وَحْمٌ يَوْحُمُ وَحَامَةً وَوَحْمَةً وَ
وَحْمًا - المكان او الطعام - کسی بگڑ
کا مضر صحت یا کسی کھانے کا ناقابل
مفہم ہونا۔
وَحْمَةٌ يَحْمُهُ وَحْمًا - سخت بد مضمی
ہونا۔
وَحْمٌ يَوْحُمُ وَحْمًا وَ اَتَحَمَّ -
من کذا وعنه - بد مضمی ہونا۔
رواحمه مواخمة فواحمة۔
(من، وَحْمًا، بد مضمی میں مقابلہ کرنا
اور غالب آنا۔
اَتَحَمَّ - اَتَحَامًا - الطعام - بد مضمی
میں مبتلا کرنا۔
وَحْمٌ - الشئ - مضر صحت بنانا۔
تَوْحَمٌ وَاسْتَوْحَمَ - الطعام کسی کھانے
کو مضر صحت پانا۔

الْوَحِيمُ وَالْوَحْمُ - مِنَ الْمَجَالِ -
سست آدمی - ج. اَوْحَام -
الْوَحْمُ - مع - بوا سیر کے مانند ایک بیماری
ہوا کا گندہ ہونا - جس سے وبا پھیلتی ہے -
الْوَحِيمُ وَالْوَحْمُ - مِنَ الْمَجَالِ -
گنداست آدمی - ج. وَحَامِي وَ
خَاوَم - بَلَدٌ وَحِيمٌ ناموافق شہر -
شَيْءٌ ذَرِيْعَةٌ - دبا زبدہ - اَرْضٌ ذَرِيْعَةٌ
وَحْتَةٌ وَدَحَامٌ وَوَحْمٌ وَوَحِيْمَةٌ
وَمَوْحَةٌ - مفر صحت گھاس والی
زمین - وبا سے متاثر زمین -
التَّخِيْمَةُ - بد معنی - ج. تَخِمَاتٌ وَ
تُخْمٌ -
تَوَخَّيْتُ - ارادہ کرنا -
الْوَحْنَةُ - فساد -
وَحْنِي يَحْنِي وَحْيًا - الامر - قصد کرنا -
او مٹی کا درمیانی چال چلنا - وَحْنٌ
وَحْنٌ - میں نے وہی ارادہ کیا جو
تو نے کیا - مَا اُدْرِي اَيْنَ وَحْنِي
میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا -
وَحْنِي - الامر - طلب کرنا - کا للامر کسی کو
کسی کام کے لیے بھیجنا -
وَحْنِي مَوْحَاةٌ - فَلَانٌ - بھائی چارہ کرنا -
تَوَخَّيْتُ تَوَحْيًا وَتَاخِيًا - الامر
قصد کرنا - طلب کرنا -
اِسْتَوْحَيْتُ - القوم - خبر دریافت کرنا -
الْوَحْيُ - مع - ارادہ - قابل اعتماد راستہ -
ارادہ کرنے والا - ج. وَحْيِي وَوَحْيِي
الْوَحْيُ وَالْوَحْيَةُ - ارادہ -
وَدَّكَ يُوَدُّ وَدًّا وَوَدًّا وَوَدًّا
وَوَدًّا وَوَدًّا وَوَدًّا وَوَدًّا
وَمَوْدَّةٌ وَمَوْدَرَةٌ وَمَوْدُوْدَةٌ -
محبت کرنا -
وَدِدْتُ لَوَاكٍ كَذًا وَلَوْ اَنَّكَ فَعَلْتَ
کذا - میری رائے ہے کہ ایسا ہوتا -

اسحق صود و ستنہ کم رویدگی والی زمین۔ وَدَّصَ يَدُصْ وُدَّصَا۔ ایہ بکلا چہ ادھوری بات کہنا۔ وَدَّعَ يَدَّعْ وُدَّعَا۔ الشی۔ چھوڑنا۔ ماکا عندکا۔ مال و ولایت کے طور پر رکھنا۔ الشی۔ چھوڑنا وُدَّعَا المسافر الناس مسافر کا لوگوں کو عیش و آرام میں چھوڑنا۔ الشوب بالشوب۔ محفوظ کرنا۔ روددع یودع ووداعة الرجل۔ مطمئن ہونا۔ صفت (وَدَّعْ) وَدَّعْ۔ المسافر القوم۔ مسافر کا لوگوں کو عیش و آرام میں چھوڑنا۔ القوم المسافر۔ لوگوں کا مسافر کو خست کرنا۔ فلانا چھوڑنا۔ الصبی والکلب بچہ یا کتے کی گردن میں کوری ڈالنا۔ قَسَسَ۔ ٹھوڑے کو خوشحال رکھنا۔ وَدَّعَهُ مَوَدَّعَةً ووداعاً۔ دشمنی چھوڑ کر صلح کرنا۔ اسم الوداع۔ وَدَّعَهُ۔ الشی۔ امانت رکھنا۔ کالستہ کسی سے بھید کہنا اور اس کو راز میں رکھنے کے لیے کہنا۔ وَدَّعَ كِتَابَهُ كَذًا۔ اس نے خط میں ایسا لکھا۔ الکلام معنی حسنًا۔ عمدہ معنی کی تفہیم کرنا۔ وودعته ماکا میں نے اس کا مال امانت کے طور پر رکھا۔ وَدَّعَ القوم۔ بعض کا بعض کو خست کرنا۔ النب بالشوب۔ کو محفوظ رکھنا۔ فلانا کسی کو اپنی حاجت میں مشغول کرنا۔ وَدَّعَ القوم۔ آپس میں صلح کرنا۔ ایک دوسرے کو خست کرنا۔ وَدَّعَ آرام کرنا۔ قرار پانا۔ تن آسان ہونا وَدَّعَ۔ فلانا ماکا کسی کے پاس مال امانت کے طور پر رکھنا۔	جانور کی گردن کی رگ کا ٹٹا۔ وَدَّجَ بَيْنَ القوم۔ معاملات کی اصلاح کرنا۔ شرفساد دور کرنا۔ وَدَّجَهُ مَوَدَّجَةً۔ صلح کرنا۔ نرمی دہشتی سے پیش آنا۔ الوَدَّجُ۔ ج اوداج والوداج۔ گردن کی رگ۔ الوَدَّجُ۔ وسیلہ سبب۔ ج اوداج۔ الوَدَّجَان۔ دو بھائی۔ وَدَّجَ لَهُ۔ مطیع ہونا۔ اقرار کرنا۔ الابل۔ اونٹ کا موٹا ہونا۔ الحوض۔ حوض کی درستی کرنا۔ الوَدَّحَةُ وَدَّسَ يَدُّسْ وُدَّسَا۔ مستی سے بیہوش کے قریب پہنچنا۔ الشی۔ ہٹانا۔ دور کرنا۔ وَدَّسَ كَ۔ اُکسا کر خطرہ میں ڈالنا۔ پیغامبر بھیجنا۔ چیز کو ہٹانا۔ دور کرنا۔ مال میں فضول خرچی کرنا۔ گمراہ کرنا۔ وَدَّسَ۔ فضول خرچ ہونا۔ فی الامر۔ پڑنا۔ کسی کو ہلاکت میں ڈالنا۔ وَدَّسَ يَدُّسْ وُدَّسَا۔ علی الشی پوشیدہ ہونا۔ بالشی چھپانا۔ ایہ بکلا چہ ادھوری بات کرنا۔ الرجل جانا۔ وَدَّسَ۔ الشی۔ پوشیدہ ہونا۔ وَدَّسَتِ الماشية۔ مویشی کا ہریالی چرنا۔ وَدَّسَ وودس وودس۔ المكان۔ ہریال والا ہونا۔ وَدَّسَتِ الأرض۔ زمین کا اس قدر سبزہ اگانا کہ سطح ڈھک جائے۔ الوَدَّسَ وَالوَدَّاسَ وَالوَدَّاسَ۔ زمین کی سطح کو ڈھکنے والی نباتات۔ الودس۔ عیب۔ الوَدَّيسَ۔ خشک نباتات۔ پتلا شہد۔	میری تنہا ہے کہ تم ایسا کرتے۔ وَدَّكَ وَدَّادًا وَمَوَدَّةً۔ محبت کرنا۔ توَدَّكَ۔ دوستی چاہنا۔ توَدَّزَ۔ ایہ دوستی کرنا۔ الوَدُّ ابوز الوُدُّ۔ دوستی تم کہتے ہو۔ یوَدِّي ان یكون كذا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو محبت کرنے والا۔ یا بہت محبت کرنے والا۔ ج اوداد وَدَّ وَاوَدَّ۔ الوَدُّد۔ بہت محبت کرنے والا۔ محبوب (مذکر و مؤنث یکساں) الوَدَّيْدُ۔ محبت کرنے والا۔ ج اودد وَاوَدَّعَ۔ الْاوَدُّ۔ اسم تفضیل۔ ج الاودون۔ الموَدُّ۔ بہت محبت کرنے والا۔ وَدَّ يَدَّ وُدَّأُ۔ الشی۔ ہموار و برابر کرنا۔ بالقوم۔ بدسلوکی کرنا۔ وَدَّ يَدَّ وُدَّأُ۔ خبر کرنا۔ وَدَّأُ توَدَّيْنَا و توَدَّيْتُهُ۔ علیہ الأرض کسی پر زمین ہموار کرنا۔ (دفن کرنا) علیہ وہ۔ ہلاک کرنا۔ وَدَّأَتْهُ الأرض۔ زمین نے اس کو چھپایا۔ توَدَّأُ۔ علیہ۔ ہلاک کرنا۔ توَدَّأَتْ علیہ الأرض۔ زمین کا اوپر گم پڑنا اور ہموار ہونا۔ علیہ وعنه الاجبار۔ خبریں بند ہونا۔ توَدَّأُ الرجل۔ مرنا۔ فلان علی صالحہ مال لینا اور جمع کرنا۔ الوَدَّأُ۔ ہلاکت۔ تباہی۔ التوَدَّيْتُهُ۔ مع۔ دفن کرنا۔ الموَدَّأَةُ۔ ہلاکت۔ بے آب ریگستان میت کا گرہا یا قبر۔ الوَدَّبُ۔ بدحالی۔ ہو علی و دپ وہ بہت بُری حالت میں ہے۔ وَدَّجَ يَدَّجَ وُدَّجَا وودَّجَ۔ الدابتہ
--	---	---

الْوَدَّع - مم - تبر - نشاند - ج دُدَّوع -

(دالودوع) گھونگا - کوڑی - واحد
وَدَّعَة وَدَّعَة - ج دَدَّعَات -
الْوَدَّع - جنگی چوہا

الْوَدَّع - الوداع -

الْوَدَّعَة - حلم دردیاری -

الدَّعَّة - والدَّعَّة والدَّعَّة -
والنَّوَّاعَة - سکون - راحت -

الْوَدَّع - ج دَدَّعَاء - چپ چاپ ٹھہرنے
والا - دَدَّع - عمد نامہ - منقرہ -

الْوَدَّعَة - مونث - الودیع - امانت -

ج دَدَّع -

المُسْتَوْدَع - حفاظت کی جگہ - رحم مادر -

المِيْدَع - ج مَوْدَع والمِيْدَعَة

والمِيْدَعَة - پرانا استعالی کپڑا -

کپڑا وغیرہ محفوظ رکھنے کی چیز - کلام

مِيْدَع - رنج وہ گفتگو -

المِيْدَعَة - آرام پسند آدمی -

المُوْدَع - مفع - من الجبل - اسیل گھوڑا -

المُوْدَع - آرام - آسانی - سکون - وقار -

وَدَّعَ يَدَّعُ وُدَّعًا - الشَّحْم - چربی کا

پگھلنا - الاناء برتن کا ٹپکنا - لہ لہ عطاء

محبش کم دینا -

تَوَدَّعَ - الغبیر - خبر دریافت کرنا -

تَوَدَّعَتِ الْاَوْدَعَالُ فَوْقَ الْجَبَلِ -

بارہ سنگوں کا پہاڑ کی چوٹی سے جھانکنا -

اَسْتَوْدَعَ الشَّحْم - چربی کو ٹپکانے کے

لیے پگھلانا - اللبن - دودھ کو برتن میں

ڈالنا - فی الاناء برتن کا سر اگھول کر

اندر دیکھنا -

الغَبْر - خبر دریافت کرنا - معروف

فلان - کسی سے محبت مانگنا - النبات

نباتات کا دراز ہونا -

الْوَدْفَة وَالْوَدْفَة - سرسبز باغ یا چراگاہ -

الْوَدْفَة - چربی - ایک قسم کی نباتات جس کو

نقصی بھی کہتے ہیں -

وَدَّعَ يَدَّعُ وُدَّعًا - المطر - بارش کا گرنا -

يَكُنَا (وَدَّعًا وُدَّعًا) البذر نزدیک ہونا

بہ - مانوس ہونا - بطند - وسیع ہونا

ياحِلْنَا - السماء - آسمان کا بارش برسانا -

السيف - تلوار کا نیز ہونا -

وَدَّعَ يَدَّعُ وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وَدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا وُدَّعًا

کا بِالْعَصَا لاطعی سے مارنا -

الشئ - چیز کو گھٹانا - حقیر کرنا - کوٹنا -

صفت مفعول مَوْدُونٌ رَوْدُنًا و

وَدَّعًا - الشئ - چیز کو ترک کرنا - بھگوننا -

الجلد - چمڑے کو نرم کرنے کے لیے

مٹی کے نیچے دبانا -

وَدَّعَتِ تَوْدَنَ وُدَّعًا وُدَّعَتِ تَوْدَنَ

وُدَّعًا - المرأة - عورت کا کمزور جسم

کے بچے جننا - وُدَّعَتِ الشئ - چیز کو

چھوٹا کرنا - ترک کرنا - نرم کرنا - گھٹانا -

أَوْدَنَ الشئ - چھوٹا کرنا - تَوْدَنَ -

الجلد کھال کا نرم ہونا - الجلد -

کھال بھگوننا - الجلد - کھال بھگنا -

الأودن - ملائم - نرم -

الموْدَنَ وَالْمَوْدُونِ - کمزور بچہ -

الموْدُونِ - کوتاہ گردن اور چھوٹے ہاتھوں

والا - ناقص الخلق - تنگ کندھوں

والا - مؤنث مَوْدُونَة -

الموْدُونِ - چھوٹا - ناقص الخلق -

الوْدِينِ - بھگایا ہوا -

وَدَّعَ يَدَّعُ وُدَّعًا - فُلَانًا عَنِ الْأَمْرِ

بُھٹانا - روکنا -

أَوْدَعَ أَيَّدَاهَا - بالابل اونٹ کو ڈانڈ

فُلَانًا عَنِ كَذَا باز رکھنا -

اَسْتَوْدَعَ - الخصم - مغلوب ہونا - مطيع

ہونا - اَسْتَوْدَعَتِ الْاِبِلُ اُونٹوں کا

اکٹھا ہونا -

اَسْتَيْدَكَ - الرجل - کسی کو ذلیل جاننا -

الامر - کام کا درست ہونا -

الودهاء من النساء غلبه صورت گوری عورت

وَدَّعَ يَدَّعُ وُدَّعًا وُدَّعَتِ الْقَاتِلِ

القتيل - مقتول کے وارث کو خون بہا دینا -

الامر - نزدیک کرنا - رَوْدِيًا الشئ

بہنا - اسی سے وادی مشتق ہے -

أَوْدَى أَيَّدَاءُ - ہلاک ہونا -

بِسِ الْمَوْتِ - موت کا کسی کو ملے جانا۔
اسْتَوْدَى السَّيِّدَاءُ - بحقہ
حق کا اقرار کرنا۔ الذیۃ - خون بہا۔
ج ذیات
الوَدَى - ہلاکت۔

الوَادِی - پہاڑوں یا ٹیلوں کے درمیان کا
فاصلہ جو سیلاب کے بہنے کی جگہ ہو۔
ج اَوْدِیۡتًا وَاَوْدِیۡتًا وَاَوْدَاۡءُ
وَاَوْدَاۡکَ - طریقہ مذہب۔ کہتے ہیں
ہما من واد واحد - وہ دونوں ایک
معنی یا ایک لفظ سے ہیں۔ سَمَاۡ
بِهَمُّ الْوَادِی - یعنی وہ ہلاک ہو گئے
کہتے ہیں انت فی وادٍ وَاخٰن فی
وَادٍ - مقاصد میں حسب اختلاف ہو
تو یہ جملہ بولتے ہیں۔
الوَدِجِ - کھجور کے چھوٹے پودے۔ واحد۔
وَدِیۡۃ -

التَّوَدِیۡۃ - پست تدارمی۔ اوٹنی گے
تھنوں پر باندھنے کی لکڑی۔ ج۔
التَّوَادِی -

المُودِی - فاشیر۔
وَذَاۡیِدٌ اَوْ ذَاۡءُ فُلَانَا - ڈانٹنا خیر سمجھنا۔
عیب لگانا۔

اَقْدَاۡءُ - جھڑکی برداشت کرنا۔
الْوَدُوۡءُ - ناپسند۔ مکروہ بات۔
الْوَدَاۡۃُ - عیب علت۔

وَذَخَ یَذِخُ وَذَخًا - تیز چلنا۔ وَذِخَتْ
تَوَذَّحَ وَتَبَذَّحَ وَذَخًا - الشاقۃ۔
رانوں پر خشک گوبر یا مینگنی لگا ہونا۔
الرجل - رانوں کے اندرونی حصہ کا جلا
ہوا ہونا۔

الْوَذَخ - خشک شدہ پیشاب یا مینگنی
دیگر جو بکری یا بھیڑ کی اڈن میں لگی
ہو۔ واحد وَذَخۃ - ج وَذَخ -
الْاَوْذَخ - لٹیم - کمینہ۔

وَذَرَ کَا یَذِرُ کَا وَذَرًا - کاٹنا۔
وَذَرَ الْجَرَاحَ زَحْمَ کُوْجِرِنَا -
الشئی - چھوڑنا یہ معنی صرف مضارع و امر
میں ہوں گے۔ ذَرَا - مونث ذری
چھوڑ دے (وَذَرَ تَوَذَّرًا)
الْوَذَرُ مَحَا - گوشت کے چھوٹے چھوٹے
ٹکڑے کاٹنا۔

الْوَذَرُ مَحَا مِنَ الْلَحْمِ - گوشت کا چھوٹا ٹکڑا
ج وَذَرٌ وَذَرٌ -
الْوَذَرَتَانِ - دو ہونٹ۔

الْوَذَرَةُ - پُر گوشت بازو۔ بڑی بووالی
عورت۔ یا موٹے ہونٹ والی۔
الْوَذَرَةُ - درزی کا کٹا ہوا کپڑے کا ٹکڑا
وَذَعٌ یَذِغُ وَذَعًا - الماء - پانی کا بہنا۔

الْوَاخِیۡعُ - چشمہ چٹان پر بہتے والا پانی۔
وَذَفٌ یَذِفُ وَذَفًا - الشحم وغیرہ ہٹانا
رَوَذَفًا وَذَفَانًا وَوَذَفٌ وَوَذَفٌ
نازدیک سے چلنا۔

تَوَذَّلَ - القوم من الجزاء - گوشت کا
ٹکڑا لینا۔ امْرَاۡتُهُ وَذَلَّةٌ وَذَلَّةٌ
حیست و چالاک اور خوبصورت تندرستی عورت
الْوَذَلۃ - گوشت کا ٹکڑا جس کو نصاب تقسیم
سے علیحدہ رکھ لے۔

الْوَذِیْلۃ - کوہان یا دم کے گوشت کا ٹکڑا
من النساء - خوبصورت قدرتی عورت۔
وَذِمَّتْ تَوَذَّمُ وَذَمًا - الدلو - ڈول کا
تسمہ ڈینا۔ صفت و ذمۃ - الوذم
نفسہ - تسمہ ڈینا۔

وَذَمَّہ - کاٹنا۔ وَذَرَ الْکَلْبَ - کہنے کی
گردن میں تسمہ یا پٹا باندھنا۔ علیٰ الحسین
پچاس سے زیادہ عمر ہونا الیمین اپنے
پر واجب کرنا۔ الدلو - ڈول کے لیے
تسمہ بنانا۔

اَوْذَمَ - الدلو - ڈول میں تسمہ باندھنا۔
یا اس کے لیے تسمہ بنانا۔ ۲ لَنَذَرَ

نذر واجب کرنا۔ علیٰ الحسین۔
پچاس سے عمر زیادہ ہونا۔
الْوَذَم - مع۔ زیادتی۔ مسر۔ ج۔
وَذَمٌ وَاَوْذَامٌ وَاَوْذَمٌ وَجِجٌ
اَوْاۡذَمٌ - الوذم - ڈول کا تسمہ۔
واحد وَذَمۃ - امْرَاۡتُهُ وَذَمًا
باجھ عورت۔

الْوَذَمۃ - آنٹیں۔ ادھم۔ ج وَذَام -
الْوَذِیْمۃ - فی سبیل اللہ دیا ہوا مال۔
وَذِیْمۃ الْکَلْب - کہنے کی گردن کا پٹہ
ج وَذَاۡئِم -

تَوَذَّنَ تَوَذَّنًا - پھیر دینا۔ تبدیل کرنا۔
تَوَذَّنَ الشئی - فُلَانًا - پسند آنا۔
وَذُوۡذٌ - الرجل - جلدی کرنا۔ سُرْجُلٌ
وَذُوۡذٌ - تیز رفتار آدمی۔

وَذِی یَذِی وَذِیًا - وَجْهَهُ - ناخنوں سے
چہرہ توجینا پھیلنا۔
الْوَذَاۡۃُ - ایذا پانے کا باعث۔

الْوَذِیۃ - اسم مرہ۔ درد۔ بیماری۔ عجز
تھوڑا پانی۔

الْوَسَرُ - زمین کا گڑھا۔ رد الوسر - سرین۔
وَسَرٌ اَوْ یَسَرٌ اَوْ یُسَرٌ اَوْ وَسْرٌ - الشئی
دفع کرنا۔ ہٹانا۔ من الطعام - کھانے
سے شکم سیر ہونا۔ مَا دَسَرْتُ دَمًا
اُسْتُتْ وَمَا دَسَرْتُ - میں نے اس
کو نہیں جانا۔

تَوَسَّرْتُ - علیہ الامراض - زمین کا کسی
پر گر کر برابر ہونا۔

الْوَسْرُ اَوْ یُسَرٌ - دَسَرْتُ الْاِنْسَانَ یُجِیۡحُ
آگے۔ مذکر و مونث ہے۔ اور یہ بکری
کے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔
من ابتغی دَسْرًا اَوْ ذَاۡلِکَ - جو شخص
اس کے سوا طلب کرے۔

دَسَرْتُ بَوَسْرًا دَسْرًا - خراب ہونا۔
صفت دَسْرٌ -

وَرَثَ عَنْ الشَّيْءِ - معارضات سے
تور یہ کرنا۔

وَرَثَ رَجُلًا وَرَثَةً - الرجلُ
فریب دینا۔ فریب میں لانا۔

الْوَرَثُ - جنگی جانوروں کا بھٹ۔ یا

بچھو وغیرہ کے سوراخ کا منہ۔ دوسلیوں
کا درمیانی حصہ۔ عضو۔ انگوٹھے اور
شہادت کی انگلی کے درمیان کا فاصلہ

چوڑے۔ ج۔ اَوْرَثَ -

الْوَرَثَةُ - چوڑے۔ کوکھ کا گڑھا۔

الْوَرَثُ - کچی۔ موڑ۔

وَرِثَ بَرِثٌ وَرِثًا وَرِثًا وَرِثًا
وَرِثَةً وَرِثَةً وَرِثًا
فلاناً۔ وارث ہونا۔

وَرِثَ - الرجلُ مَالًا - میراث قرار دینا۔

۴ من فلان وارث بنانا۔ الرجلُ

فلاناً کسی کو اپنا وارث بنانا۔

النَّاسُ - لگ بھگ کانے کے لیے بلانا۔

اَوْرَثَهُ اِثْرًا - وارث بنانا۔

فلاناً مَالًا - میراث قرار دینا۔

۵ السَّقَمُ - بیماری میں مبتلا کرنا۔

۶ الشَّيْءُ پیچھے لانا۔ اَوْرَثَهُ الْعَنْثُ

هَمًّا - باعث، وسبب غم ہونا۔

اَوْرَثَ الْمَطْرُ النَّبَاتَ نِعْمَةً -

باعث وسبب نعمت ہونا۔ ولد کا

تنہا وارث بنانا۔

تَوَارِثَ - القومُ ایک دوسرے کا وارث

ہونا۔

تَوَارِثُوا الْعَالِ او المَجْدِ کَابِرًا

عَنْ کَابِرٍ - انہوں نے اپنے باپ

دادوں سے شرافت پائی۔

تَوَارِثَنِ الْحَوَادِثِ حَوَادِثَاتٍ مَجْهَرٍ

لِی درپے آئے۔

الْوَرِثُ - تازہ چیز۔

الامراث والورث والوراثۃ و

التَّوَارِثُ - میت کا ترکہ۔

الْوَارِثُ - ج۔ وَرِثَةٌ وَوَرِثَاتٌ

المیراث - میت کا ترکہ۔

ج۔ مَوَارِثُ - میراث، چھوڑنے

والا۔ ورثہ میں حاصل کیا ہوا مال۔

وَرِثَ یُورِثُ وَرِثًا وَوَرِثًا

العجین - گدھے ہوئے آٹے کا

پتلا ہونا۔

اَوْرَثَ - العجین - گدھے ہوئے آٹے

کو پتلا کرنا۔

تَوَارِثَ تَوَارِثًا وَاسْتَوَارِثَ

استیواخا۔ الارض - زمین کا ترکہ

ہونا۔ مکان و مریخ - گھنی۔ گھاس

والی جگہ۔

الْوَرِثَةُ - تر اور گیلی زمین۔

نرم گدھا ہوا آٹا۔

وَرِثَ دُورًا وَوَرِثًا - الماء - پانی پرانا

یا پیچھا۔ صفت و اسد - الماء وغیرہ

پانی وغیرہ کی طرف متوجہ ہونا۔

فریب آنا۔ پیچھا۔ اسم - الوَرِثُ -

الرجل حاضر ہونا وَرِثَ رِثَ الْحَقِّ

بجارجاری سے آنا۔ الشَّجَرَةُ -

درخت کا پھول نکالنا۔ وَرِثَ عَلَیْ

کتاب میرے پاس خط آیا۔ وَرِثَ

الرجل کسی کو باری کا بخار آنا۔

وَرِثَ عَلَیْهِ بَغْلَانِ - لایا حانا۔

وَرِثَ دُورًا وَوَرِثًا وَوَرِثًا

الفرس - گھوڑے کا زردی مائل

سُرخ ہونا۔

وَرِثَ - الشَّجَرُ - درخت کا پھول نکالنا۔

وَرِثَ رِثَ الْمَوْتِ خَدَّهَا عَوْرَتِ

کا اپنے رخساروں کو سرخ کرنا۔

وَرِثَ الثَّوْبَ - کپڑے کو گلابی رنگنا۔

وَرِثَ مَوَارِثًا - الرجل - کسی کے

پاس آنا۔ الشَّاعِرُ الشَّاعِرُ دوسرے

شاعر کی نظم سے ملتی جلتی نظم۔ بغیر اس

کو دیکھتے یا سننے کے کہنا۔

اَوْرَثَ اَیْوَادًا - گھاٹ پر لانا۔ پیش

کرنا۔ لانا۔ الماء پانی پر لانا۔

اَوْرَثَ السَّكْرَ - نصزع کرنا۔

الشَّيْءُ - ذکر کرنا۔ الخبیر - بیان کرنا

تَوَرَّثَ - پانی پر آئے کو کہنا۔ الماء

پانی پر آنا۔ الخبیل البلدۃ -

سواروں کا شہر میں چھوٹے چھوٹے

دستوں میں داخل ہونا۔ الخدۃ -

رخسارے کا سُرخ ہونا۔

تَوَارِثَ - القوم الی المکان - ایک

دوسرے کے بعد پیچھا۔ تَوَارِثُوا

الماء - پانی پر اکٹھے پیچھا۔

تَوَارِثَ الشَّاعِرَ - دو شاعروں

کا بغیر سننے ہوئے لفظ و معنی میں اتفاق

کرنا۔

اسْتَوَارِثَ الماءَ پانی پر آنا۔ الماء

پر لانا۔ الضلالة - گمراہی میں مبتلا

کرنا۔ فلاناً الضلالة - گمراہی میں

مبتلا کرنا۔

الْوَرِثُ - ج۔ وَرِثٌ وَوَرِثًا وَوَرِثًا

زعفران - شیر - بہادر - نڈر - من

الخبیل - زردی مائل سُرخ رنگ کا

گھوڑا۔ ج۔ وَرِثٌ وَوَرِثًا - درخت کی کل -

گلاب کا درخت۔ وَرِثٌ ذَهْنًا

ایک قسم کا پودا۔

الْوَرِثُ - بخار۔ پانی پر آنا۔

قرآن کا وہ حصہ جو ورد کے طور

پر پڑھا جائے۔ ج۔ اَوْرَثَ -

پیاس۔ پانی کا حصہ۔ گھاٹ۔

پانی پر وارد ہونے والے اونٹ

یا لوگ۔ لشکر۔ پرندوں کا جھنڈ۔

بنت وَرِثَاتٍ ایک قسم کا کیڑا۔



الْوَارِثُ وَالْوَارِثُ - مِنَ الثِّيَابِ
سَرَفٌ - وَارِثُ الْحُمْرَةِ سَمْتُ

الوَطَنَةُ - کیچڑ - گڑھا - کنواں -

حالت میں ہے۔ الوبرع پر پیر

ج ویر کان و اوسال داسر دل
موت۔ دس لک۔
دیر مہر و دس ما و توڑ۔ الجلد
سوجا۔ صفت (وایر) انف
فلان۔ غضبناک ہونا۔ البتہ۔
نباتات کا دراز اور موٹا ہونا۔
وسر۔ الجلد۔ منورم کرنا۔
انف فلان۔ غضبناک کرنا۔
بالفہ۔ تکبر کرنا۔
اوسر۔ ابرام۔ فلانا فلان غضبناک
کرنے والی بات سننا۔
اوسر۔ سوچن۔ ج اوسر۔
اوسر۔ لوگ یا بہت لوگ۔ کتنے ہیں
ما اوسر ای اوسر۔ میں
نہیں جانتا وہ کون ہے۔
اوسر۔ سوڑھا۔
اوسر۔ مغم۔ قوی ہیکل آدمی۔
واسر۔ مواسر۔ آٹے سے سامنے ہونا۔
مقابل ہونا۔
توسر۔ بہت نیل ملنا۔ ناز و نعم میں پالنا۔
اوسر۔ ایک قسم کی مچھلی۔
دیر کا یوسر۔ دس ہا۔ بے خوف ہونا۔
صفت اوسر۔ موت۔ دس ہا۔
وسر۔ ہت۔ الترح۔ ہوا کا تیز چلنا۔
وسر۔ ترو۔ دس ہا۔ الیوسر۔
عورت کا چربی دار ہونا۔
توسر۔ فلان فی عمل ہذا الشیء کسی کا
کوئی کام مہارت سے نہ کرنا۔
اوسر۔ من السحاب۔ بہت بارش برسنے
والا بادل۔
اوسر۔ کٹنا۔ فراخ۔
وسر۔ النظر۔ نظر تیز کرنا۔
فی الکلام۔ جلدی بولنا۔
اوسر۔ کمزور نظر کا آدمی۔
اوسر۔ گالنے والا۔

دسری یوی وریا۔ الرجل۔ پھیرے
پر مارنا۔ القبیح جوف۔ خراب کرنا
گلانا۔ امم الوری۔ دسرت وریا
دسریۃ۔ الناس۔ آگ کا جلنا۔
الایل۔ اونٹ کا موٹا اور چربی دار
ہونا۔
دسری و دسری یوی وریا وریا
دسریۃ۔ الزند۔ چقماق کا آگ
نکالنا۔ صفت وایر۔
دسری یوی وریا۔ المص۔ گودے
کا ٹھوس ہونا۔
دسری الرجل۔ پھیرے میں پیپ پڑنا۔
صفت موی و موی۔
دسری تویریۃ۔ الشیء۔ چھپانا۔
عن کذا۔ حقیقت کو چھپانا۔ الخیر
وعین الخیر۔ چھپے کرنا۔ چھپانا۔ عن
فلان بصیرۃ۔ کسی سے آنکھ پھیر لینا۔
دسری الناس۔ آگ نکالنا۔
دسری موی۔ الشیء۔ چھپانا۔ پوشیدہ
کرنا۔
توسری تویریا و تویری تویری۔
عنہ۔ چھپنا۔
استوری۔ الزند۔ چقماق سے آگ
نکالنا۔
استوریۃ۔ یہ۔ میں نے اس سے
اس کی رائے دریافت کی۔
الوری۔ اسم وری کا۔ مخلوق۔ ابو
الوری۔ زمانہ۔
الزند الویری و الوری۔
موی چربی۔ دالوری۔ کمزور
پڑوسی۔ لعمہ وری۔ موٹا
گوشت۔
سریۃ الناس و دسریۃ۔ آگ
سلگانے کا چیتھڑا وغیرہ۔
اوسر۔ بجائے اوسر۔ بط۔

موت (دس لک)۔ ج دسرات۔
ارض موی۔ بہت بط والی
زمین۔
دسری یوی وریا۔ اللحم۔
گوشت کو خشک کرنا۔ القوم۔
بعض کا بعض کو ہٹانا۔ دسری اھم۔
بعض کو بعض سے ہٹانا۔
دسری تویریۃ و تویریۃ۔
القربۃ۔ مشک بھرنے۔
الفرس براکبہ۔ گھوڑے کا
اپنے سوار کو گرانا۔ دسری فلانا۔
کسی سے سخت قسم کھلانا۔
توسری۔ الوعاء۔ برتن کا بھرنے۔
الرجل۔ خوشنالی سے بھرنے۔
دسری یوی وریا۔ الماء و
نحوہ۔ پانی وغیرہ کا ہٹنا۔
اوسر۔ ایڑا۔ فی الارض جانا۔
اوسر۔ ماہر چور۔
المیڑاب و المیڑاب۔ پرنا۔
ج مہیازیب۔ د مہیازیب۔
یا مویازیب۔
دسری یوی وریا و دسری۔
الشیء۔ چیز کو اٹھانا۔ الرجل کسی
کا بوجھل چیز اٹھانا۔
دسری۔ السوجی۔ کسی پر غالب
ہونا۔
الشمۃ۔ رخنہ بند کرنا۔
دسری یوی وریا و دسری۔
دسری یوی وریا و دسری۔
دسری یوی وریا۔ گنہ گار ہونا۔
دسری۔ فلان۔ گناہ سے مشرب
کیا جانا۔
دسری یوی وریا۔ للملک۔ ملک
کا وزیر ہونا۔
اوسر۔ ایڑا۔ الشیء محفوظ کرنا۔

چھپانا لے جانا۔ الرجل۔ پناہ دینا۔
 دَاوَسَ كَ مَوَاسِرَةٍ۔ وزیر ہونا۔
 كَا عَلَى الْأَصْبَرِ۔ مدد دینا۔ قوت پہنچانا۔
 تَوَسَّرَ۔ کہ۔ کسی کا وزیر ہونا۔
 اِتَّقَسَّرَ۔ چھوٹا کھیل اور ہنسا۔ بشو بے
 چھوٹے کھیل کے مانند ہنسا۔ گناہ کرنا۔
 اِسْتَوَسَّرَ۔ کسی کو وزیر بنانا۔
 اِسْتَوَسَّرَ۔ الشیء لے جانا۔
 اَلْوَسْرُ۔ مم۔ گناہ۔ بوجھ۔ بھاری بوجھ
 کپڑوں کی گھڑی۔ ج اَوَسَّرَ اس۔
 اَوَسَّرَ اِسْرَ الْحَرْبِ۔ جنگ کے ہتھیار
 و ساز و سامان۔ وَصَّعَتِ الْحَرْبُ
 اَوَسَّرَ اَرَهَا۔ لڑائی ختم ہو گئی۔
 اَلْوَسْرُ۔ جائے پناہ۔ اونچا پہاڑ۔
 اَلْوَسْرَةُ۔ چھوٹا کھیل۔ ج وَسَّرَ سَرَاتِ
 و وَسَّرَ سَرَاتِ و وَسَّرَ سَرَاتِ۔
 اَلْوَسْرُ یُور۔ بادشاہ کا مددگار۔ معاون۔
 ج وَسَّرَ سَرَاوِ اَوَسَّرَ اس۔
 اَلْمَوَسَّرُ و س مفع مجرم وہ جس پر گناہ کا
 الزام لگایا گیا ہو۔
 وَسَّرَ عَ یَزَعُ و یَزَعُ دَمْرَعًا۔
 فلانا و بقلان۔ روکنا۔ منع کرنا۔
 سَر وَسَّرَ عَ الْجیشِ فوج کو ترتیب دینا
 صفوں میں رکھنا۔
 (وَسَّرُ دَعَا) فلانا و بقلان۔
 بھڑکانا۔
 وَسَّرَ عَ۔ اَلْمَالُ بِنِہِمِ۔ پراگندہ کرنا۔
 اَلْمَالُ عَلَیْہِم۔ تقسیم کرنا۔
 اَوَسَّرَ عَ۔ اَلْمَالُ۔ تقسیم کرنا۔
 کا بکذا۔ بھڑکانا۔ اَوَسَّرَ عَ بِنِہِمَا
 تفریق کرنا۔ اصداغ کرنا۔ کا الشیء
 اَلْمَامُ کرنا۔ اَوَسَّرَ عَ الشیء۔ اَلْمَامُ
 کیا جانا۔ اَوَسَّرَ عَ جہا بھڑکایا جانا۔
 صفت (وَسَّرَ عَ)

تَوَسَّرَ عَ۔ تفریق ہونا۔ اَلْقَوْمُ اَلْمَالُ۔ مال
 آپس میں بانٹ لینا۔
 تَوَسَّرَ عَتَدَ الْاَفْکَاسَ۔ اُس نے
 کبھی اس کی فکر کی کبھی اس کی۔
 تَوَسَّرَ عَوَا ضِیُوقُہُمْ۔ وہ مہماؤں
 کو اپنے اپنے گھروں کی طرف لے
 گئے۔
 اَتَزَرَ عَ۔ باز رہنا۔
 اِسْتَوَسَّرَ عَ اللہ شکر کا۔ خدا تعالیٰ
 سے شکر کی توفیق چاہنا۔
 اَلْوَسْرُ عَ۔ نادار رہنے والا۔ کتا۔ فوج
 کا سردار۔ ج وَسَّرَ عَ دُورَ عَ۔
 اَلْوَسْرُ عَتَدَ۔ جمع دَاوَسَ عَ۔ بادشاہ کے
 مدد و محافظ۔ محارم اللہ سے باز
 رکھنے والا۔
 اَلْاَوَسْرُ عَ۔ جماعتیں۔ اس کا واحد
 نہیں،
 اَلْمَتَوَسِّرُ عَ۔ نا۔ اولوالعزم۔ ثابت قدم
 مضبوط۔
 وَسَّرَ عَ یَزَعُ دَمْرَعًا و اَوَسَّرَ عَ۔
 بیولہ۔ پشیماب تھوڑا تھوڑا کرنا۔
 اَوَسَّرَ عَتِ الطَّعْمَتِ بِالْدَّارِ۔
 نیزے کے گھاؤ سے خون تھوڑا تھوڑا
 نکلا۔
 وَسَّرَ عَ۔ اَلْجَنین۔ پیٹ میں بچہ کی
 صورت اختیار کر کے حرکت کرنا۔
 اَلْوَسْرُ عَ۔ ریشہ۔ کیکچی۔ بزدل آدمی۔
 اَلْوَسْرَ عَ۔ چھپکلی۔ ج وَسَّرَ عَ وَاوَسَّرَ عَ
 و اَوَسَّرَ عَ و وَسَّرَ عَا و
 اَسْرَ عَا۔
 اَلْاَوَسْرَ عَ۔ کمزور لوگ۔
 وَسَّرَ فَ یَزَعُ وَسَّرَ فَا و وَسَّرَ یَقَا و
 وَسَّرَ فَ تَوَسَّرَ یَقَا و اَوَسَّرَ فَ
 اِیْزَا فَا۔ جلدی کرنا۔ (وَسَّرَ فَا)
 فلانا۔ جلدی کرنا۔

وَاوَسَّرَ فَا مَوَاسِرَ فَا وَاوَسَّرَ فَا
 تَوَسَّرَ فَا۔ اَلْوَسْرُ۔ ایک دوسرے
 کے نزدیک ہونا۔
 وَسَّرَ مَرَبِیْرَ وَاوَسَّرَ مَا۔ فلانا بقیہ۔
 منہ سے۔ آہستہ سے کاٹنا۔
 اَلشَّیْءُ تَوَسَّرَ۔ اَلدِّیْنُ۔ قرض ادا
 کرنا۔ (وَسَّرَ مَ) نَفْسًا۔ دن میں
 ایک بار کھانا۔
 وَسَّرَ مَ وَاوَسَّرَ مَ۔ فَا مَالِہ۔ مال میں
 نقصان اٹھانا۔
 تَوَسَّرَ مَ۔ بہت روندنے والا ہونا۔
 اَلْوَسْرُ مَ۔ مم۔ مقدار۔ اپنے وقت پر آنے
 والا۔ (وَاوَسَّرَ مَ) وَاوَسَّرَ مَ (وَاوَسَّرَ مَ)
 سبزی کا گٹھا۔ وہ گوشت جس کو عقیاب
 اپنے کھولنے میں جمع کرتا ہے۔
 اَلْوَسْرُ یَمَ۔ گوشت کا خشک ٹکڑا۔ بڑا
 چوہا۔ س رَجُلٌ وَاوَسَّرَ یَمَ۔ گٹھے گوشت
 کا آدمی۔
 اَلْوَسْرَ مَ۔ مم۔ مقدار۔ کھانا جو دن میں
 ایک مرتبہ کھایا جائے۔
 اَلْوَسْرَ مَ۔ سرعت۔
 اَلْوَسْرَ مَ۔ بہت گوشت اور غصہ والا۔
 وَسَّرَ فَا یَزَعُ وَاوَسَّرَ فَا۔ الشیء
 تولنا۔ وزن کرنا۔ لہ اَلدَّرَاہِمَ
 وغیرہا۔ روپیہ وغیرہ وزن کر کے
 دینا۔ اَلشَّعْرَ۔ شعر کی تقطیع کرنا۔
 هَذَا اِیْزَا فَا۔ یہ رطل کے
 برابر ہے۔
 وَسَّرَ فَا یَزَعُ وَاوَسَّرَ فَا۔ الشیء
 بوجھل ہونا۔ صفت (وَاوَسَّرَ فَا)
 اَلرَّجُلُ۔ بختہ راستے ہونا۔
 وَسَّرَ فَا وَاوَسَّرَ فَا۔ نَفْسًا عَلٰی کَذَا۔
 اپنا دل لگانا یا مشغول کرنا۔
 وَاوَسَّرَ فَا وَاوَسَّرَ فَا۔
 سامنے یا مقابل ہونا۔ وزن

<p>میں برابر ہونا۔ کام کا بدلہ دینا۔ بین الشیئین۔ وزن معلوم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ تَوَازَنَ۔ الشیئان۔ باہم برابر ہونا۔ اِتَّزَنَ۔ ثُلثًا۔ الدنار اھم۔ درہم پر گھٹنا۔ العدل گھڑی کا دوسرے کے برابر ہونا۔ الشیء۔ وزن کر کے لینا۔ الوترن۔ سم۔ ثقال۔ ج۔ اوزن ان۔ هَذَا اِدرھم وزن۔ یہ درہم سکاری وزن رکھتا ہے۔ هَذَا رَجُلٌ رَاحِعٌ الوترن۔ یہ کامل عقل والا آدمی ہے هُوَ وَترن الشیء اوزنہ الشیء اوزن ان الشیء و بوزن اینہ د بوزن ایتھ۔ وہ اس کے سامنے ہے یا وزن میں اس کے برابر ہے۔ وَهُوَ وَترن الجبل وہ پہاڑ کی جانب میں ہے۔ الوترنۃ۔ بوجھ۔ کامل عقل و پختہ راستے والی عورت۔ الوترنۃ۔ وزن کا طریقہ۔ الوترن۔ نا۔ دس اھم و اوزن پورے وزن کا درہم۔ الاوزن۔ اسم تفضیل۔ کہتے ہیں۔ هَذَا الْقَوْلُ الْاَوْزَنُ مِنْ غَيْرِهِ یہ قول دوسرے سے زیادہ قوی ہے هُوَ اَوْزَنُ الْقَوْمِ۔ وہ قوم میں سب سے زیادہ ذی وجاہت آدمی ہے۔ الوترین۔ اندراتن کے لیے ہوتے والے۔ فلان و ترین المرای۔ فلان سنجیدہ راستے والا ہے۔ الموتر و ترۃ۔ پست قدم۔ عقل مند عورت۔</p>	<p>المیزان۔ ترازو۔ ج۔ موازنین۔ المیزان۔ مقدار۔ النصف۔ استقامۃ میزان النھار۔ دن آدھا ہو گیا۔ وَتر وَتر وَترۃ۔ جسم کو ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چلنا۔ ہلکا ہونا اور جلدی کودنا۔ الوتر و تر۔ جسم کو حرکت دیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔ رَوِ الوتر اوزنۃ۔ اوجھا پست قدم آدمی۔ ایک پرندہ۔ الموتر و تر۔ نا۔ گانے والا۔ وَتر ی یزی وَتر یا۔ الشیء۔ جمع ہونا۔ سکرنا۔ الامر فلاناً۔ غضبناک کرنا۔ وَتر کا موازنۃ۔ آسنے سامنے ہونا۔ اَوْزى ایزاء۔ دیوار وغیرہ سے ٹیک لگانا۔ لِدَا اِرۃ۔ گھر کی دیواروں کو مٹی سے لپینا۔ الشیء۔ اٹھانا۔ ٹیک لگانا۔ الی فلان۔ کسی سے پناہ لینا۔ اَوْتر یتۃ الیہ۔ پناہ لینے پر مجبور کرنا۔ تَوَتر ی تَوَتر یا۔ الشیئان۔ ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ اسْتَوَتر ی اسْتِیَتر اء۔ فی الجبل۔ پہاڑ پر چڑھنا۔ المُسْتَوَتر ی۔ خود را۔ بے آدمی۔ سیدھا کھڑا ہونے والا۔ وَسَب یَسَب وَسَبًا وَاَوْسَب الیسابا المكان۔ جگہ کا بہت گھاس والی ہونا اَوْسَب الکبش۔ مینڈھے کا بہت اون</p>	<p>والا ہونا۔ وَسَب یُوسَب وَسَبًا۔ الثوب کپڑے کا میلا ہونا۔ الوسب۔ گھاس۔ اَلْوَسَب۔ میل۔ الیساب۔ نیم پختہ کھجور۔ وَسَجَت تَسَج وَ سَجًا وَ سِیَجًا وَ سَجَاتًا الابل۔ اونٹ کا نیز چلنا۔ صفت۔ (وَاِسَجۃ) اَوْسَج۔ البعیر۔ اونٹ کو جلدی چلانا۔ اَوْسَجَ وَالْوَسُوج۔ من الابل نیز رفتار اونٹ۔ ج۔ وُسَج۔ الوَسَج وَالْوَسَجَان وَالْوَسِیج۔ اونٹ کی نیز چال۔ وَسَخ یُوسَخ وَاِسَخ وَاِسِیَخ وَسَخًا۔ میل پر گھٹنا۔ میلا ہونا۔ صفت وَسَخ۔ وَسَخ وَاَوْسَخ۔ الشیء میل کرنا۔ تَوَسَخ وَاَتَسَخ وَاَسْتَوَسَخ میل ہونا۔ الوَسَخ۔ میسل کچیل۔ ج۔ اَوْسَخ۔ وَسَدَک۔ الوَسَادۃ۔ کسی کے سر کے نیچے تکیہ رکھنا۔ وَسَدَک البیۃ الامو کسی کام کو کسی کے ذمہ لگانا۔ اَوْسَد۔ فی الیسر۔ نیز چلنا۔ الکلب بالصید۔ کتے کو شکار پر اُکسانا۔ تَوَسَدَک۔ الوَسَادۃ۔ سر کے نیچے تکیہ رکھنا۔ ذمہ اعدا بازو کو سر کے نیچے تکیہ کی طرح رکھنا۔</p>
--	--	---

الْوَسَادُ وَالْوَسَادُ وَالْوَسَادُ - گل تیکہ
گاؤں - ج وُسد - سر جُل
عریف الِوَسَادَةِ - کندھن
آدمی - اَنّ وَسَادَکَ لَعْرِیفِ
کنایہ ہے - بہت سونے سے -

الْوَسَادَةُ وَالْوَسَادَةُ وَالْوَسَادَةُ
تیکہ - گل تیکہ - ج وِسَادَات -
وِسَادَات وِسَادَات
وِسَادَات -

وَسَطٌ یَسِطُ وَسَطًا وَسِطَةً -
المکان ادا القوم - جگہ کے یا
لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا -
صفت وَاِسْطٌ -

رَوَسَاطَةٌ القوم و فیہم
حق وعدل میں اپنی قوم میں متوسط
ہونا -

وَسَطٌ یُوسِطُ وَسَاطَةً - شریف
ہونا - حسب والا ہونا -

وَسَطٌ یَسِطُ وَسَاطَةً وَسِطَةً
وَدَسَطٌ - فی حَسْبِهِ - شریف
و خاندانی ہونا -

وَسَطَةٌ - ثالث بنانا - درمیان میں لکھنا
وَسَطُ الشَّیْءِ - دو ٹکڑے کرنا -

اَوَسَطُ اَبْسَاطًا - القوم - بیچ میں
داخل ہونا -

تَوَسَّطَ - القوم او المکان - بیچ میں
بیٹھنا - بینہ - درمیان میں ثالث
ہونا - الرجل - درمیانی یا اوسط

چیز لینا -

الْوَسْطُ (مذکر - مونث - واحد - جمع)
معتدل - درمیان - ج اَوَسَاط -

وَسَطُ الشَّیْءِ - چیز کے دونوں اطراف
کا درمیان - جیسے وَسَطُ الْجَبَلِ

و وَسَطُ الدَّائِرَةِ - رَجُلٌ وَسَطٌ -
صاحب حسب آدمی -

الْوَاسِطُ - فَا - دروازہ - پالان کا اگلا
حصہ -

الْوَاسِطَةُ - مونث الوَاسِطُ پالان
کا اگلا حصہ - ہار کے بیچ کا جوہر
جو سب سے عمدہ ہوتا ہے -

ذریعہ - سبب - ثالث - فَلَکٌ
فِی وَاسِطَتِ قَوْصِهِ - فلاں

اپنی قوم میں سب سے اچھا
آدمی ہے -

الْوَسَاطَةُ - م - ثالثی -
الْوَسِیْطُ - دو جگہ کے والوں کے

درمیان ثالث آدمی - ج -
وَسَطَاءُ - مونث وِسیْطَةٌ -

هُوَ وَسِیْطٌ فِیْہُمْ - وہ سب
میں نمایاں شخصیت کا مالک ہے

الْاَوَسَطُ - متوسط - معتدل - ج -
اَوَاسِطُ - الْعِلْمُ الْاَوَسَطُ -

علم ریاضی اس کو حکمت وسطی بھی کہتے
ہیں -

الْوَسْطِی - مونث - الْاَوَسَطُ - ج -
وَسْطٌ - من الاصل - بیچ کی

انگلی -

الْوَسْطُ - درمیانی - بالوں کا نیم یا چھوٹا خیمہ
وَسْطُ - الشمس - سورج کا بیچ آسمان پرانا

مُوسِطٌ - البیت - گھر کا درمیانی حصہ -
الْمَتَوَسِّطُ - فَا - بحر متوسط یعنی بحر ابیض

یا بحر روم جو ایشیا اور افریقہ کے
درمیان ہے -

وَسِیعٌ یَسِیعُ وَ یَسِیعُ سَعَةً وَ سِيعَةً
المکان - جگہ کا وسیع و کشادہ ہونا -

الشَّیْءِ - وسیع کرنا - هَذَا الْاِنَاءُ
یَسِیعُ عَشْرَینَ کِیلًا - اس برتن میں

بیس کیل سماتے ہیں - وَ سِعَتْ
رَحْمَةُ اللّٰهِ کُلَّ شَیْءٍ وَ لِكُلِّ شَیْءٍ وَ
عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ

خدا تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر
لیا ہے - مَا اَسْعَ هَذَا مِیْنِ اس
کی طاقت نہیں رکھتا - لَا یَسْعَکَ
اَنْ تَفْعَلَ هَذَا - تمہارے لیے یہ کرنا
روا نہیں - یا تم اس کے کرنے پر
قادر نہیں -

وَسِعَ یُوسِعُ وَسْعًا - اللّٰهُ عَلَیْہِمْ
رِزْقًا خدا تعالیٰ کا رزق کو بکثرت
دینا - رزق میں فراخی دینا - مالدار بنانا -

وَسِعَ یُوسِعُ سَعَةً وَ سَاعَةً - المکان
جگہ کا کشادہ و فراخ ہونا - الفرس
گھوڑے کا کشادہ قدم ہونا -

اَوْسَعَ - بہت مال والا ہونا -
الموضع - جگہ کو کشادہ کرنا -

النفقة - بہت خرچ کرنا (وَسِعَ)
کشادہ کرنا - اللّٰهُ عَلَیْہِمْ کسی کو مالدار
کرنا - تَوَسَّعَ - کشادہ ہونا - القوم

فی المکان - کشادگی کرنا -

اِتَّسَعَ - کشادہ ہونا - الرجل - وسعت
والا اور دولت مند ہونا - النهار

و غیور کا - دن وغیرہ کا دراز و لمبا ہونا -
اِسْتَوْسَعَ - کشادہ ہونا - الشَّیْءُ کسی چیز

کو وسیع پانا - یا وسیع چاہنا -

الْوَاسِعُ - فَا - کشادہ - فراخ فی الآسماو
الحُسْنٰی - اللّٰهُ تَعَالٰی کے اسمائے حسنی

میں سے ہے - یعنی بہت دینے
والا - ہر چیز پر محیط -

الْمَوْسِعُ وَ الْوَسِیعُ الْوَسِیعُ
طاقت -

السَّعَةُ وَالْوَسْعَةُ -
وَالْتَّوَسِيعَةُ - وسعت

چوڑائی - آسودگی - طاقت
قدرت -

الْوَسِیعُ - کشادہ - من الخیل -
کشادہ قدم گھوڑا -



الْوَسَّاحُ - من الغيل - عمدہ - کشادہ قدم گھوڑا۔
 وَسَفَتْ تَوْسِيفًا - الشَّيْءُ - چھینا۔
 تَوْسَفَتْ - الشَّيْءُ - چھینا۔ البَعِيدُ - اونٹ کا
 مونا ہونا اور پہلے بال گر کر دوسرے بال لانا۔
 أَوْبَادُ الْإِبِلِ - اونٹ کے بال بھرنے۔
 وَسَقَى يَسَقٍ وَسَقًا - الماشی جمع کرنا اور اٹھانا
 البَعِيدُ - اونٹ پر دست لادنا۔
 أَوْسَقَتِ النَّاقَةُ وَغُلِبُهَا - اُدْنَى کا
 حاملہ ہونا۔ صفت واسق ۲، واسقات
 دَسَاقٍ اور مَوَاسِقٍ دَمَوَاسِقٍ
 لَا أَفْعَلُهُ مَا وَسَقَتْ عَيْنِي الْمَاءَ۔
 جب تک میری آنکھیں تر ہیں میں اس کو نہیں
 کروں گا یعنی کچھ نہیں کروں گا۔ دَسَقَتِ
 النُّخْلَةَ - درخت خرما کا پھلدار ہونا۔
 (وَصِيقًا) البَعِيدُ - اونٹ کو ہانکنا۔
 دَسَقَ - الحَنْطَلَةَ - گندم کو دستوں میں پھیر کرنا۔
 أَوْسَقَ - الْبَسَاقَا - الدَّابَّةُ - جانور پر بوجھ
 لادنا۔ أَوْسَقَتِ النُّخْلَةَ - درخت خرما
 کا بہت پھلدار ہونا۔
 وَاسْقَهُ مَوَاسِقَةً - برابر ہونا یا مقابلہ کرنا۔
 السَّقَى - الأمر - کام کا ترتیب میں ہونا۔
 الْإِبِلُ - اونٹوں کا جمع ہونا۔ الْقَمَرُ - چاند
 کا بڑا ہونا۔
 اسْتَوْسَقَ - اسْتَيْسَقًا - اکٹھا ہونا۔ الْأَمْرُ
 مرتب ہونا۔ لہ الْأَمْرُ - ممکن ہونا۔
 الْوَسَقُ - مع۔ ساٹھ ساع - بعض کے
 نزدیک ایک اونٹ کا بوجھ ۲، أَوْسَقُ
 الْوَسَقُ - درخت خرما کا بوجھ ۲، ج۔ أَوْسَقُ
 وَوَسَوَى۔
 الْوَسِيقُ - مع۔ دھتکار - بارش۔
 الْوَسِيقَةُ - مِنْ الْإِبِلِ - اونٹوں کا ریور۔
 ۲، دَسَاقٍ
 الْوَسِيقَةُ - حاملہ۔
 الْمَشَقُّ - اہل عروص کی اصطلاح میں مجسّر
 شدارک کا نام۔ چاند کا نام۔

الْمِيسَقُ - مِنَ الْخَمَامِ - بڑے بازوؤں
 والا کبوتر۔ وہ پرندہ جو اڑنے میں پر پر پر ہے
 ۲، مِيسَقٌ وَمِيسَقٌ۔
 وَسَلَّ سَيْلٌ وَسَيْلَةٌ وَوَسَلَّ وَتَوَسَّلَ
 إِلَى اللَّهِ يَعْلَى أَوْ سَيْلَةً - اللہ
 تک تقریب حاصل کرنا۔ صفت۔ واسل۔
 الْوَسْلَةُ وَالْوَسِيلَةُ - ذریعہ۔ تقریب
 ۲، دَسِيلٌ وَوَسَائِلٌ وَوَسَلٌ۔
 الْوَسِيلَةُ وَالْوَسِيلَةُ - مرتبہ۔ درجہ
 دَسَمَهُ لَيْسَهُ وَسَمًا وَسِمَةً - داغ
 دینا۔ موسم بہار کی پہلی بارش کا زمین
 پر پڑنا۔
 دَسَمَ يَدَسُمُ دَسَامًا وَوَسَامَةً
 وَوَسَامًا - الْفَلَامُ - خوبصورت
 چہرہ والا ہونا۔ الْوَجْهَ - چہرہ کا
 خوبصورت ہونا۔
 وَسَمَ - الشَّيْءُ - موسم حج میں مکہ میں
 حاضر ہونا۔
 وَاسَمَهُ مَوَاسِمَةً - خوبصورتی میں
 مقابلہ کرنا۔
 تَوْسَمَ - الشَّيْءُ - فراست سے کوئی چیز
 معلوم کرنا۔ علامت طلب کرنا۔
 پیمائش۔ تَوْسَمَ فِيهِ الْخَيْرُ۔
 کسی میں بھلائی معلوم کرنا۔ الْمَرْجُلُ
 موسم بہار کی گھاس تلاش کرنا۔
 تَوْسَمَ بِالْوَسْمَةِ - دسم لگانا۔
 السَّمُ - نشان دار ہونا۔ مہیر ہونا۔
 الْوَسْمُ - مع۔ ایک درخت جس کے
 پتوں کو خضاب کے طور پر استعمال
 کرتے ہیں۔ نشانی داغ کا اثر۔
 ۲، وَوَسُمَ۔
 السَّمَةُ - علامت۔ داغ کا اثر۔
 ۲، سَمَاتٌ۔
 الْوَسْمِيُّ - موسم بہار کی پہلی بارش۔
 الْوَسَامُ - جانوروں پر لگایا ہوا نشان

مخمر ۲، أَوْسَمَةُ۔
 الْوَسْمَةُ وَالْوَسْمَةُ - نیل کے پتے
 وسمہ۔
 الْوَسِيمُ - خوبصورت چہرے والا۔
 ۲، وَسَمَارٌ وَسَامٌ - مَوْتِ دَسِيمَةٍ
 ۲، وَسِيمَاتٌ وَوَسَامٌ۔
 الْوَسَامَةُ - مع۔ حسن کا اثر حسنِ جمال۔
 الْوَسْمُ - خوبصورت۔
 الْمَوْسِمُ - لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔
 مکہ میں حاجیوں کے جمع ہونیکا
 وقت۔ عید۔ ۲، مَوَاسِمُ۔
 الْمِيسَمُ - داغ لگانے کا آلہ۔ داغ
 کا نشان۔ ۲، مِيسَمٌ۔
 الْمِيسَمُ - حسن و جمال۔
 الْمَوَاسِمُ - داغ دیے ہوئے اونٹ۔
 وَسَيْنٌ يَوْسَنٌ وَسَنًا وَسِنَةً - انگھڑا
 نیند سے جاگنا۔ (مضد) صفت مذکر
 وَسَيْنٌ وَسَنَانٌ وَبِيسَانٌ - صفت
 مَوْتِ وَسِنَةٍ۔
 وَوَسْنَى وَمِيسَانٌ - وَسَيْنٌ
 فَلَانٌ - کنویں کی بدلو سے بہوش ہونا۔
 تَوْسَنَهُ - نیند کے وقت آنا۔
 الْوَسْنُ - مع۔ حاجت ۲، أَوْسَانٌ۔
 الْمِيسَنَةُ - مع۔ اونگھ۔ عنودگی۔
 ہوئی سِنَةٍ - وہ غفلت میں ہے۔
 الْوَسْنَةُ - مع۔ نیند کی کمی۔ اونگھ۔
 الْوَسْنَى - بہت اونگھنے والا۔
 الْمَوْسُونُ - سُت - کابل۔ (مَوْتِ)
 مَوْسُونَةٌ۔
 وَوَسْوَسَ وَوَسْوَسًا وَوَسْوَسَةً
 الشَّيْطَانُ لَهُ وَوَالِيَهُ - وسوسہ
 ڈالنا۔ الھج - عقل کی خرابی سے
 کسی کا بے تکی بانا۔ کرنا۔ وسوسہ میں
 مبتلا ہونا۔ صفت۔ مَوْسُوْسٌ - آہستہ
 بولنا۔ الْهَدْيُ وَالْقَدْبُ - جھنکار

پیدا ہونا۔ آواز رکنا۔ الجھل۔ کسی سے
کھینچنا۔ بات کرنا۔

وَسُوْسٌ - بہ - کلام مختلط ہونا۔

الْوَسْوَسُ - وَسُوْسٌ کا اسم۔ شیطان۔

وہم کی بیماری۔ دل میں آنے والی بُرائی

بالے نفع بات۔ ج۔ وَسُوْسٌ -

وَسَتْ لَيْسِي دَسِيًّا دَأْسَةً - سر موندنا۔

دَأْسِي - الرجل - مَوَاسَاةً - مدد کرنا۔

أَوْسَى الْيَسَارَ - الرَّاس - سر موندنا۔

الْأُسَى - كَأْسًا -

الْمَوْسَى - أَسْتَرَهُ - ج۔ مَوَاسٍ -

الرَّشَبُ - ج۔ أَدْشَابُ - بے

ترتیب گردہ۔ اوباش لوگ۔

وَشَجَّتْ لَشَجٍّ وَشَجًّا - الْأَعْصَانُ

شاخوں کا ایک دوسرے میں الجھا

ہوا ہونا۔ وَشَجَّتْ فِي قَلْبِي هُمُومٌ -

میرے دلی تفکرات کئی طرح کے ہیں

وَشَجَّتْ يَدَايَ قَرَأْتُهُ - اس کی

رشتہ داری تم سے بل گئی۔ (وَشَجَّ)

محملہ تسم سے باندھنا تاکہ کوئی

چیز گرنے نہ پائے۔

دَشَجَ اللَّهُ بَيْنَ الْقَوْمِ - خدا نے لوگوں

کو لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا۔

تَوَشَّجَتْ وَتَوَشَّجَتْ - عُرُوقُ

الشَّجْوَةِ وَنَحْوَهُ - جُردوں کا باہم

پھیرنا ہونا۔

الْوَشَّجَةُ - فَا - بَحْمِيْدَةٌ - مَوْتٌ - وَاشْجَةُ

الْوَشَّجَةُ - باہم پیوستہ قربت۔

الْوَشَّجُ - باہم پیوستہ رشتہ داری۔

نیز بے بنائے کا درخت۔ نیزے۔

الْوَشَّجَةُ - درخت کے ریشہ کی ہٹی

الْوَشَّجَةُ - کان کی رگ۔ ج۔ وَشَّجُ -

دَشَّجَهُ - جُرَادٌ يَبْنِي بَيْتًا -

تَوَشَّجَ وَاشْتَجَ - مَرْمَعٌ يُكَاثِبَانَا -

تَوَشَّجَ بَسِيْفُهُ - تلوار گردن میں لگانا۔

بَثْوِمِهِ - کپڑا پہننا یا بغل سے رکال کر

کندھے پر ڈالنا۔ الْحَبْلُ - پہاڑ چلنا۔

الْوَشَّاحُ - تلوار۔ کمان۔

ذو الوشاح - حضرت عمر بن الخطاب

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار (والوشاح)

جُرَادٌ يَبْنِي ج۔ دَشَّجَ وَادْشَحَهُ

وَدَشَّاحُ -

الْوَشَّاحَةُ - سفید دھاریوں والی کالی

بکری۔

المَوْشَجُ - اشجار کی ایک قسم جس میں

ایک قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ

اہل اُلس کی ایجاد ہے۔

المَوْشَحَةُ - مینا الطیر اور الطباء پرندہ

یا بہر جس کی گردن پر مالا کی طرح دو

خطوط ہوں۔

وَشَّرَ لَشِيرٌ وَشَرًّا - اسنانہ

دانتوں کو تیز اور باریک کرنا۔

الْخَشْبَةُ بِالْمَنْشَارِ - لکڑی کو آگے

سے چرنا۔

اَشْتَرُوا سَتَوْشَرَ - دانت نیز اور

باریک کرنے کو کہنا۔

الْمَشْتَارُ - آرہ۔

المَوْشُوْسُ - منہ۔ علم طبیعات کی

اصطلاح میں تین ضلعوں والا بوری جسم۔

ج۔ مَوَاشِيْرُ -

وَشَّرَ كَيْشَرٌ وَشَرًّا - جلدی کرنا۔

تَوَشَّرَ - لَشِيرٌ - بُرَائِي کے لیے تیار

ہونا۔

الْوَشَّرُ وَالْوَشَّرُ - تیزی۔ بلند مکان

جس سے پناہ لی جائے۔ زندگی کی سختی

ج۔ اَدْشَانُ -

الْوَشَّيْرَةُ - ج۔ وَشَّيْرُ - بہت بھرا

ہوا تکبیر۔

وَشَّطَّ يَشْطُ وَشَطًّا - الْعُظْمُ - ہڈی

توڑنا۔ الْفَاسُ كَلْبَائِي كے دستہ میں

پتھر لگانا۔ الْقَوْمُ الْيَنَّا - کم لوگوں کا آکر

مینا۔

الْوَشَّيْطُ - تابع۔ حلیف۔ قوم میں اجنبی

خسیس۔ خَلْفَ النِّسْلِ لُوكٌ - ج۔

أَدْشَاظُ (الْوَشَّيْطَةُ) لکڑی کا ٹکڑا،

جس سے لکڑی کا پیالہ جوڑا جاتا ہے۔

هُمْ وَشَّيْطَةٌ فِي قَوْمِهِ - وہ قوم میں

ادنیٰ لوگ ہیں ج۔ دَشَّايْظُ -

وَشَّعَ يَشَّعُ وَشَّعًا - الْيَتَّى - ملانا۔ الْقَطَنُ

روئی کو پینا۔ (وَشَّعًا وَشَّوْعًا) الْحَبْلُ

دنیہ۔ پہاڑ پر چڑھنا۔ الْبَقْلَةُ - سبزی

کا پھولدار ہونا۔ وَشَّعَهُ الشَّيْءُ بَلَدٌ هُونَا -

وَشَّعَ - الْقَطَنُ - روئی کو دھونے کے بعد

پینا۔ الثَّوبُ - کپڑے پر میل بوئے

ڈالنا۔ الشَّيْبُ دَأْسَةً - سر پر بالوں کی

سفیدی کا فہر ہونا۔ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ

ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا۔

وَشَّعُوا عَلَى كَمَا مَهْمٌ أَوْ سَتَلَهُمْ -

انگوروں کے باغ کے ارد گرد بار لگانا۔

أَوْشَعَ - الْبَقْلُ أَوِ الشَّعْوُ - سبزی یا

درخت کا پھولدار ہونا۔

تَوَشَّعَ - الشَّيْبُ مَأْسَةً - سر پر بڑھاپا

آیا۔ بہ۔ بہت ہونا۔ بِالْمَكْذِبِ - جھوٹ

سے مزین ہونا۔ الْعَنَمُ فِي الْحَبْلِ - بکریوں

کا چرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا۔

الْوَشَّعُ - مہر۔ سبزیوں کے سنوے۔ پہاڑ

میں مقوڑی سبزی۔

الوشع - کڑی کا جال۔

الوشوع - پیار کی متفرق نباتات جن میں پکانے کی دوا۔

الوشع - کڑے کے میں بڑے - باغ

تے ارد گرد کاٹی ہوئی کانٹوں کی بار۔

گھر کی چھت یا چھت کی لکڑیوں پر ڈالی

ہوئی چٹائی - درخت کا وہ حصہ جو سوکھ

کر گر گیا ہو - فوج کے افسر کا خیمہ جہاں

سے وہ فوج کی دیکھ بھال کرتا ہو۔

الوشبعہ - رنگ برنگ کے سوت پٹے

کا گٹا - جلاسے کی نال - ہر پچیدہ چیز۔

عبار کی دھاری (ج) و شع و شائع

الموشع - مض - بڑا موشع - دھاری

دار منقش چادر۔

و شع کیشع و شعا - بولہ - پشاب کرنا۔

و شع - الثوب - بالدر - کڑے کو خون میں

لتھر کر اس کو دھاری دار کرنا۔

او شع ایشاعا - العطیة - بخش کم

دینا - بولہ - پشاب کرنا۔

توشع - بالشوع - برائی سے آلودہ ہونا۔

الوشع والوشع - کم - مقوڑا۔

وشقه لیثقه و شقا - خراش ڈانا

ہ بالومح یزید مارنا - و شق اللحم

گوشت کو پھانکوں میں کاٹنا - الوجل -

جلدی کرنا۔

و شق - الشی - کڑے کڑے کرنا۔

او شق - الشی فی الشی - چٹنا۔

لواشق و الشق - القوم العک و

یاسیا فیہم - دشمن کو تلواروں سے

کاٹنا - کڑے کڑے کرنا۔

الواشق - نا - مقوڑا دودھ - جلد گز جانے

والی چیز جیسے عمر یا زمانہ۔

الوشق - متفرق چادر یا کھاس۔

الوشق - ایک جالور جس کی کھال سے

عمدہ پوستین تیار ہوتے ہیں۔

الوشیق والوشیقہ - کاٹ کر ٹکڑوں

میں خشک کیا ہوا گوشت (ج) و شاق

المیشاق - کچی کا دندانہ۔

و شق یوشق و شقا و شاکہ و

و شق - الامس - جلدی ہونا - صفت۔

و شیق۔

اوشق - جلدی چٹنا اور قریب پہنچنا

سے سے اوشق ان یموت - اس

کی خبر پر اکثر ان آتا ہے۔

اوشق مواشقة - تیر چٹنا۔

الوشق والوشق والوشکان والوشکان

والوشکان - سرعت - و شکان ما

یکون ذلک - یہ کس قدر جلدی ہونے

کو ہے۔

الوشاق - سرعت۔

الوشیق - مذکر ثؤنت جلد باز۔

خروج و شیکا - تیزی سے نکلا۔

و شق کیشل و شلا و و شلاکنا۔

الماء - پانی کا بہنا - پکنا (و شولا)

کمزور ہونا - مفس ہونا - الیہ۔

خاکساری ظاہر کرنا۔

اوشق - الماء - پانی کو کم پانا۔

حفظ - حصہ مقوڑا یا کم کرنا۔

الوشق - پیار یا چٹان سے ٹپکنے والا

پانی - مقوڑا آتسو (مند) ج) اوشال

الوشق - سبب و خوف - جاء

القوم اوشاکہ - قوم کے لوگ ایک

دوسرے سے پیچھے آئے۔ عیون

و شلہ - کم پانی کے پتے۔

الواشیل - نا - من الجبال - وہ پہاڑ

جس سے ہمیشہ پانی ٹپکے یا رے۔

فلان واشیل الوای - فلاں کمزور

راٹے والا ہے۔

واشیل الحظ - ناقص اور صوب

حصہ والا - ناقہ و شول - بہت یا تھوڑا

دودھ والی اونٹنی - (مند)

الوشول - دولت کی کمی - نقصان۔

و شم ییشم و شما و و شم - الید۔

ہاتھ گودنا - و شم العصن - شاخ

کا پتے نکالنا۔

اوشم الیشاما - المکان - کسی جگہ پر

اگنا - الکمار - انگوڑا رنگ پکڑنا۔

الشیب فی داسہ - سر میں بڑھاپے

کی سفیدی ظاہر ہونا - البوق - بجلی کا

چکنا - السماء - آسمان میں بجلی کوٹنا۔

فی عرف فلان - کسی کو گالی دینا - کسی

پر عیب لگانا - فی الامس - کسی امر میں غور

و تامل کرنا - اوشمت الجابر یثہ

پتالوں کا ابھرنے لگنا - اوشم لیفل

کذا - وہ الیا کرنے لگا۔

استوشم استیشاما - گودنے کے لیے

کھنا یا ارادہ کرنا۔

الوشم - مہ - گودنے کے نشانات۔

گودائی - ہلے ظاہر ہونے والی نباتات۔

ج) و شوم و و شامہ۔

الوشمکہ - بارش کا قطرہ - ماعصاء

و شمتہ - اس نے اس کی ذرا بھی

ناف یانی نہیں کی۔

الوشیمہ - برائی - دشمنی۔

توشق - الماء - پانی کا کم ہونا۔

الوشق - دسترخوان پر کھانے کا ساقی۔

و شوش و شوشة - فلانا - آہٹگی

سے کسی سے بات کرنا - کانا پھوسی کرنا۔

الوشوش والوشواش - بہ جلد باز۔

مرجل و شوی الذراع - کام میں

پھر تلامد۔

دشی یشی و شیا و شیتہ و شتی الثوب

کلام کو جھوٹ سے سجانا۔

دشی یشی و شیا و و شایہ - بہ چغوری

کرنا۔ بُوْ فَلَاکَ - اولاد کا زیادہ ہونا۔
اَوْشَى الْإِشَاءَ - امکان کسی جگہ نباتات
اُکنا۔ الرَّجُلُ - کسی کے مویشی کا زیادہ
ہونا۔ اور نسل بڑھانا۔ الْمُعْدِنُ - کان
نیں سونا تھوڑا پایا جانا۔ الْمُنْخَلَّةُ
درخت خرما کا پھل پھل لانا۔ اِشْبَى -
لکانا۔ جاننا۔ الْفَرْسُ - گھوڑے کو
اُکسانا۔ الدَّاءُ الْمَرْيِيْنُ - دوا کا
بیمار کو تندرست کرنا۔ فِي الدَّارِ هُمْ
کچھ لینا۔

تَوَشَّى - نقش و نگار ہونا۔ الشَّيْبُ
فی مَرِّ السَّيْمِ - بڑھا پے کی سفیدی کا
سر پر پھیل جانا۔
الْبَيْتِيُّ اسْتِشَاءَ - الْعَظْمُ - شکستہ
ہڈی کا ٹوٹ کر درست ہونا۔
اسْتَمَوَشَى - الْفَرْسُ - گھوڑے کو اُکسانا
الْحَدِيثُ - بخت کرنا۔ جمع کرنا۔
الرَّجُلُ - ناگنا اور جو کچھ ہاتھ میں ہو
لکانا۔ الْمُعْدِنُ - کان میں تھوڑا سا
سونا پایا جانا۔
الْوَشَى - مَم - کپڑے کے نقش و نگار نقش
و نگار والے کپڑے۔ ج۔ وِشَاءُ
وَشَى الْمَسْتَيْفِ - تلوار کا جوہر۔
الْوَشَاءُ - اونٹوں کی کثرت۔

الْوَأَشَى - چغندر۔ بہت اولاد یا مویشی
والا۔ جلاہا۔ ج۔ وَاَشَوْنُ - وِشَاءُ -
اَلْوِشَاءُ - سونے پر پھیلے لگانے والے
الْوَشَاءُ - نقش و نگار والے کپڑے بچنے والا۔
الْمَشِيَّةُ - مَم - داغ - نشان - علامت -
ج۔ بَشِيَّاتُ -
الْأَشْيَاءُ - داغدار - نسبت کے لیے۔
وَشَوَى -
وَمَنْ يَوْحَى وَصًا - العمل - مضبوط
بنانا۔
وَقَصَّتْ لَوَيْصًا - المَاءَةُ - عورت کا

نقاب کو تنگ کرنا۔
وَمَيُّ يَوْمًا وَصًا - الثَّوْبُ - کپڑے کا
میدل ہونا۔
وَصَبَ يَمِيبٌ وَصُوبًا - دائر رہنا ثابت
رہنا۔ المذین - قرض لازم ہونا۔
عَلَى الْأَمْرِ - ہمیشگی کرنا۔ حسن انتظام
سے کرنا۔

وَصَبَ يَوْصَبٌ وَصَبًا وَصَبٌ و
تَوَصَّبَ - بیمار ہونا۔ صفت۔ رَوَصِبٌ،
ج۔ وَصَابِي وَصَابٌ -
تَوَصَّبَ - مریض ہونا۔ اَللَّهُ فَلَانًا -
بیمار کرنا۔ الرَّجُلُ - بیمار اولاد والا ہونا۔
اِشْبَى - دائر ہونا۔ ثابت ہونا۔ دوا صبا
عَلَى الْأَمْرِ - کسی امر پر مداومت کرنا۔
الْوَأَصَبُ - بیماری۔ دائرگی۔ درد۔ اور
جسم کی لاغری۔ سستی۔ خفگی۔
الْوَصَبُ - بے حس اور سبب کے درمیان
کا جھٹہ۔ ج۔ اَوَصَابُ -

الْوَأَصِبُ - دائرگی۔
الْوَأَصِبَةُ - مَوْنٌ - اَلْوَأَصِبُ - بہت
دور تک پھیلا ہوا سیبا بان۔
الْمَوْصَبُ - بہت دروں والا۔
وَصَدَّ يَمِيبٌ وَصَدًا - ثابت رہنا۔
بالمكان - اقامت کرنا۔ الثَّوْبُ -
کپڑا بننا۔
وَصَدَّ - الثَّوْبُ - کپڑا بننا۔ الْكَلْبُ
بِالْقَيْدِ - کتے کو شکار پر بھڑکانا۔
فَلَانًا - دُرَانَا -

اَوْصَدَ - الباب - دروازہ بند کرنا۔
الْقَدَمُ - ہانڈی ڈھانکنا۔ عَلَيَّ فَلَانٍ
کسی کو تنگ کرنا۔ الْكَلْبُ بِالْقَيْدِ
کتے کو شکار پر بھڑکانا۔ وَاَسْتَوْصَدَ
بہار میں مویشی کے لیے بارہ بنانا۔
الْوَصَادُ - جُلَاہَا -
الْوَصَادُ - بندش۔ اور ڈھکائی۔

الْوَصِيدُ - چوکھٹ۔ گھر کا صحن۔ غار
پہاڑ۔ قریب قریب جڑوں والی نباتات
دوبارہ ختم کیا ہوا۔ تَنَكَّ - بند کیا ہوا
ج۔ وُصِدَ - (وَالْوَصِيدَةُ) پہاڑ
یا احاطہ۔ ج۔ وَصَائِدُ -
الْمَوْصِدُ - پردہ۔ الْوَصْرُ - عہدہ۔
اَوَاصِرُ - (وَالْوَصِيدَةُ وَالْأَوْصَرُ)
عہد نامہ۔ چمک۔ دستاویز۔

وَصَعَ لَيْصَعٌ وَصْعًا - اِشْبَى - پوشیدہ کرنا۔
وَصَفَ يَصِفُ وَصْفًا وَصْفَةً - اِشْبَى
بیان کرنا۔ تعریف کرنا۔ (وَصُوفًا) الْفَرْسُ
گھوڑے کا مددگی سے چلنا۔ (وَصْفَةً)
الطَّبِيبُ الْمَرْيِيْنُ - طبیب کا مریض
کے لیے دوا تجویز کرنا۔
وَصَفَ يَوْصَفُ وَصَافَةً - الْغَلَامُ - لڑکے
کا خدمت کرنے کے لیے لائق ہونا۔
(صفت، وَصِيفٌ، اسم۔ اَلْإِصْفَانُ -
وَالْوَصَافَةُ)

وَاَصْفَهُ - چیز کی صفت سن کر سودا کرنا۔
اَوْصَفَ اِيْقَافًا - الْغَلَامُ - لڑکے کا
تذکرہ کے لیے لائق ہونا۔
اِتَّصَفَ - اِشْبَى - چیز کا قابل بیان ہونا۔
الْمَجَلُ - اچھی صفات سے مشہور ہونا۔
بِالْصِفَاتِ الْحَمِيدَةِ - ستودہ
صفات والا ہونا۔

تَوَصَّفَ - وَصِيفًا اَوْ وَصِيفَةً - خادم یا
خادمہ بنانا۔
تَوَاصَفَ - الْقَوْمُ اِشْبَى - ایک دوسرے
سے بیان کرنا۔
اِسْتَوْصَفَ - فَلَانًا اِشْبَى - بیان کرنے
کے لیے کہا۔ الطَّبِيبُ - حکیم سے نسخہ
تجویز کرنا۔ الْغَلَامُ - لڑکے کا قابل
خدمت ہونا۔

الصِّفَةُ - مَم - صفت۔ نوبی - دھ علامت
جس سے موصوف پہچانا جائے۔

الْوَصْفَاتِ - ایک فرقہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر ہے - واحد - (وصفاتی)

الْوَصْفِيَّة - صفت کی حالت -

الْوَصْفِيَّة - خدمت کے قابل رکا - (ج)

وَصْفَاء - مَوْنَت وَصْفِيَّة (ج) وَصَائِف

وَصَلَّ لَيْسَ وَصَلًا وَصَلَةً وَصَلَةً

الشيء بالشيء - جوڑنا - جمع کرنا - بالافت

دینار - کسی کو نزار دینا دینا -

وَصَلَّة وَصَلَةً - فَلَائِي - تعلق رکھنا

زَيْدًا - نیکی کرنا - دینا - وَصَلَّ رَحْمَةً

رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رکھی کرنا -

وَصُولًا وَوَصَلَةً وَصَلَةً - إِلَى

المكان - پہنچنا - فَتَوَكَّبَ فَتَوَكَّبَ فَتَوَكَّبَ

ناقابل علاج ضرب لگانا -

وَصَلَّة وَصَلًا وَوَصَلَةً - تعلق رکھنا

وَصَلَّ الشَّيْءَ فِي الشَّيْءِ - ہمیشگی کے

ساتھ کرنا -

وَصَلَّ - الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ - جوڑنا - ملانا - (و)

أَوْصَلَ - فَلَائِي إِلَى كَذَا - پہنچانا -

تَوَصَّلَ - إِلَى كَذَا - پہنچنا - إِلَى فَلَائِي - پہنچنے

کے لیے جیلہ کرنا -

تَوَصَّلَ - الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے سے

تعلق رکھنا -

رَأَيْتُ - بِالشَّيْءِ - دینا - جڑنا - الیہ - پہنچنا -

بِیْ خَلْفِ فَلَائِي - باخبر ہونا - فَلَائِي بِالْوَزِيرِ

وزیر کی خدمت میں لگنا - إِلَى بَنِي فَلَائِي

منسوب ہونا -

اسْتَوْصَلَ - مِلَّ وَاتِّحَادٌ دُھوئڈنا -

الْوَصْلُ - مِم - لیلۃ الوصل - فَمَرَّ مَبِينٌ

کی آخری تاریخ رات - حُرث الوصل

اہل عروص کی اصطلاح میں متحرک رسی

کے بعد آنے والے حرف یعنی واؤ یا یا

الف یا ہاء - هَذَا وَصْلٌ هَذَا - یہ

اس کے مثل ہے -

الْوَصْلُ وَالْوَصْلُ - مَعْنُو - جَوْرَج - اَوَّل

الْوَصْلَةُ - مِم - ملاپ - تَفْلَن - دُوْجُوْل

کو ملانے والی چیز - سفر کے ساتھی - دُور

کا ملک - ج - وَصْلٌ -

الْوَصْلَةُ - مِم - عطیہ - احسان - انعام

(ج) وِصْلَاتٌ -

الْوَصُولُ - بُت میں رکھنے والا - بُہت

دینے والا -

الْوَصُولُ - مِم - رسید (ج) وَصُولَاتٌ

وَصِيْلٌ - الرَّجُلُ - ہمیشہ ساتھ رہنے والا - رُش

الْوَصِيْلَةُ - مَوْنَتُ الْوَصِيْل - عمارت -

آرزان - جوڑنے والی چیز - ہم سفر گروہ -

دھاگے کا گولہ یا پیچک - وَصِيْعٌ سَك

(ج) وَصَائِلُ -

الْوَصِيْلَةُ - مِم - کا ایک دھاریا رکھنا

(ج) وَصِيْلٌ وَوَصَائِلُ -

الْمَوْصِلُ - عِرَاقٍ اور جَزِيرَةٍ کے درمیان

ایک شہر کا نام -

الْمَوْصِلَانِ - شہر مومل اور عراق -

الْمُسْتَوْصِلُ - نَا - الْمُسْتَوْصِلَةُ مِم

الْقِسَاءِ - اپنے بالوں میں دوسرے

کے بال لگانے والی عورت -

وَمَعَهُمْ كَيْفُومٌ وَفُتْمَا - الْعَوْدُ أَوْ الْعُظْمُ

لکڑی یا ہڈی میں شکاف ڈالنا - الشَّيْءُ

عیب لگانا - جلدی باندھنا -

وَقَمَّ - الرَّجُلُ - اَعْضَاءُ سَکَنِي وَالْاَهْوَانَا -

فَلَائِي - سُسْت وکابل کرنا - دردناک

کرنا - تَوَقَّمْ - تَکْلِيفٌ وَدُرْدُوْلَا

ہونا -

تَوَاهَتَمَ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کو

عیب لگانا -

الْوَقَمُّ - مِم - لکڑی کی کانٹھ - عیب و

عارضہ - دُصُوْم -

الْوَهْمَةُ - عیب و عار - جَمُّ کَوْسَنِي

الْوَهْمِيْم - خنصر نمبر کے درمیان کی جلد -

مَوْصُوْمٌ الْهُسْب - عیب دار آدمی -

وَصُوْحٌ عَيْنُهُ - نظر کو جانے کے لیے

آنکھ کو تنگ کرنا - پردہ کے سوراخ سے

دیکھنا - الْجَوْرُ - پتے کا آنکھیں کھولنا -

وَصُوْحَتِ الْجَارِيَّةُ - برقع میں سے

لڑکی کی صرف دو آنکھیں نظر آئیں -

الْوُصُوْحُ وَالْوُصُوْحُ - پردہ میں آنکھ

کے برابر سوراخ - چھوٹا برقع - (ج)

وَصَاوِصٌ وَوَصَاوِصٌ -

وَصَى لَيْسَ وَصِيًّا - نرئی کے بعد تنزل

کرنا - الشَّيْءُ بِهِ يَنْقُصُ هَوْنًا - الشَّيْءُ

بِالْاِخِر - مَلَانَا - وَصِيًّا وَوَصَاوِصًا

المكان - جگہ کا منتقل نباتات والی ہونا -

الْمَبِيْت - نباتات کا بکثرت ہونا - اور

برابر برابر ہونا -

وَصَى تَوْصِيَةً - فَلَائِي بِكَذَا - کسی کام

کا عہد لینا - کسی کام کا اشارہ کرنا - الیہ

بِالْفُصْلَةِ - نماز کا حکم دینا - وَصِيَّتُهُ

لَهُ يَكْذِبُ - میں نے اس کو اپنے مرنے

کے بعد مالک بنایا -

وَصَى إِلَى فَلَائِي - کسی کو اپنے مال اور

بال بچوں پر اپنے مرنے کے بعد وصی بنانا

فَلَائِي - بولڈہ - مہربان بنانا -

أَوْصَى الْيَصَاءَ - فَلَائِي بِكَذَا - کسی سے کسی

کام کا عہد لینا - حکم دینا - اَنْ يَكْذِبُ

کسی کے لیے کسی چیز کی وصیت کرنا -

الْمِيْد - وصیت جاری کرنا یا مقرر کرنا -

وَأَصَى - الْمِيْدُ - الْمِيْدُ - ایک شہر کا

دوسرے شہر سے متصل ہونا -

تَوَاصَى تَوَاصِيًّا - الْقَوْمُ - ایک دوسرے کو

وصیت کرنا -

الْوَصِيَّةُ - الْاِیْصَاءُ کا اسم -

وَصِيَّتُهُ - یہ اس کی وصیت ہے -

(ج) وَصَايَا - وَصَايَا اللّٰهُ - اللّٰهُ سُبْحَانَهُ

کے احکام جو بندوں پر فرض ہوئے -

الْوَصِيَّةُ - درخت خرما کی شاخ جس سے گٹھا باندھتے ہیں۔ ج۔ وصی۔

الْوَصَاةُ وَالْوَصَايَا وَالْوَصَايَةُ - وصیت گٹھا باندھنے کی شاخ۔

الْوَصِي - وصیت کرنے والا۔ جس کو وصیت کی جائے۔ ج۔ اوصیاء۔

وَصُوْرٌ يُوْضِعُهُ اَوْضَاعًا - ایسی چیز کا پاکیزہ و خوبصورت ہونا۔

وَصْنَانٌ يَنْصُوْهُ وَصْنًا - خوب روئی۔ حسن و پاکیزگی میں مقابلہ کرنا اور غالب آنا۔

تَوْضِئًا - یا اَلْوَضِئَةُ - نماز کے لیے دھو کرنا۔ الغلام والجارثیہ۔ لڑکے اور لڑکی کا نام ہونا۔

الْوَضُوْرُ - دھو کر کے کا پانی۔ الوضوی - ج۔ وضوء و اوضیاء والوضی ج۔ وضوء والوضوء۔ ج۔ وضوء و وضوءون۔

وَضَافِي - پاکیزہ۔ خوبصورت۔ اَلْوَضَاءُ - زیادہ خوبصورت۔ زیادہ پاکیزہ۔ اَلْمُضَيَّاتُ وَالْمُضَيَّاتَةُ - وہ جگہ جہاں وضو کیا جائے۔ لونا۔

الْمُتَوَضِّعُ - دھو کر کے کی جگہ۔ پائخانہ۔ وَضَعٌ يَضَعُ ضَعْفَةً وَضْعَةً وَوَضْعًا وَتَوَضُّعٌ وَاتَضُّعٌ - الامرا و الکلام واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔ صفت۔ دو وضع و وضعاح۔

وَضَعٌ يُوَضِّعُ وَضْعًا - برص کے انگوٹھ والا ہونا۔ اَوْضَحُ - الامر۔ ظاہر و واضح ہونا۔

اَلْاَمْرُ - واضح ہونا۔ اَوْضَحْتُ الشَّيْخَةَ فِي الرَّاْسِ زَمٍ - کاسر کی ہڈی کو کھول دینا۔ مِنْ اَبْنٍ رَاْدُضَعَتْ - تم کہاں سے آئے۔

وَضَعٌ - واضح کرنا۔ اِسْتَوْضَحْتُ اِسْتِضْحًا - عن الامر۔

بحث کرنا۔ اَلَا مَسْ اَوْ اَلْاَمْرُ - وضاحت کرنا۔ اَلشَّيْءُ وَعَنِ الشَّيْءِ - آنکھوں پر لاکھ رکھ کر کسی چیز کو دیکھنا۔ اِسْتَمْرَ - لگاہ تنگ کر کے دیکھنا۔

اَلْوَضْعُ - مع۔ روشنی۔ صبح کی سفیدی چاندنی گھوڑے کی پیشانی یا ٹانگوں کی سفیدی۔

برص۔ بڑھاپے کی سفیدی۔ کھرا درہم اَلْوَضْعُ - دودھ۔ چھوٹی چھوٹی گھاس جیاندی کا زبور۔ یازیب۔ ج۔ اَوْضَاحُ وَضْعُ الطَّلِيْنِ - شاہراہ۔ وَضْعُ

الْقَدَرِ - پاؤں کے تلوے کی سفیدی۔ اَوْضَاحٌ مِّنَ النَّاسِ - مختلف قبیلوں کی جماعتیں۔

اَلْوَضِيْحَةُ - گدھی۔ اَلْوَضِئُ - ظاہر۔ نمایاں۔ سفید دانت۔

واَضَحُ الْحَسْبِ - بے داغ حسب الالواضحة - موت اَلْوَضِئُ ج۔ وَاَضْحَتْ وَوَضِئَتْ - مٹی میں ظاہر ہونے والے دانت۔

اَلْوَضَاحُ - سفید رنگ والا۔ خوبصورت چہرہ والا۔ بہت مسکراتے وال۔ دن۔ بکرا اَلْوَضَاحُ - صبح کی نماز۔

اَلْوَضِيْحَةُ - مویشی۔ ج۔ وَضَائِعُ اَلْمُتَوَضِّعُ - ظاہر ہونے والا۔ شاہراہ پر چلنے والا۔ مِنْ اَلْاَبْلِ - سفید اونٹ

وَضَعٌ يَضَعُ وَضْعًا - الدلو۔ پانی سے آدھا ڈول بھرنا۔ اَوْضَحُ الدَّلْوُ

ڈول کو پانی سے آدھا بھرنا۔ اَوْضَعْتُ اَلْبِيْرَ - گنوں کے پانی کا کم ہونا۔ اَوْضَحُ بِالْاَبْلِ - ڈول سے پانی کھینچنا۔ واضعہ دمنخار و مواضعہ - دوڑنے چلنے

یا پانی کھینچنے میں مقابلہ کرنا۔ تَوَضُّعُ الْقَوْمِ - دوڑنے یا چلنے یا پانی بھرنے میں مقابلہ کرنا۔

اَلْوَضُوْخُ - پانی جو نصف ڈول تک ہو۔

پانی کھینچنے کی چیز۔

وَضَعٌ يُوَضِّعُ وَضْعًا - میلا ہونا۔ چکنا ہونا۔ صفت (وَضَعٌ) - موت (وَضَعٌ) و وَضَعٌ و وَضَعٌ فَلَانٌ وَضَعٌ اَلْاَخْلَاقُ وَفِي اخلاقه وَضَعٌ - فلاں گندے اخلاق والا ہے۔

وَضَعٌ - میلا چکنا کرنا۔ اَلْوَضْعُ - چکنا ہٹ کا میلا پن۔ پیالہ کا دھوون۔ پیالے میں کھانے کا اثر (ج۔ اَوْضَاعُ -

اَلْوَضُوْى - سُرین۔ وَضَعُهُ يَضَعُهُ وَضْعًا - کینہ بنانا۔ ذلیل کرنا۔ وَضَعُ عُنُقِهِ گردن مارنا

الحدیث - بات کہنا۔ اَلْکِتَابُ - کتاب نقیض کرنا۔ اَلْاَسْلَاحُ فِي الْعَدُوِّ وَمَقَالُهُ

کرنا۔ يَدٌ عَنْ فُلَانٍ - روکنا۔ اَلْجَنَابَةُ عَنْ فُلَانٍ - ناپاکی دور کرنا۔ عَصَاهُ يَهْرُنَا

اُتَامَتُ كَرْنَا - وَضَعْتُ الْمَرْأَةَ خُمَارَهَا بے اورھنی کے ہونا۔ صفت۔ (وَضَعٌ) وَضَعُ الشَّيْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ - چیز کو سامنے

بھپور دینا۔ يَدٌ فِي الطَّعَامِ - کھانا کھانا اَلْجَزِيَّةُ اَوْ اَلْحَرْبُ - ساقط کرنا۔

وَضَعٌ يَضَعُ وَضْعًا وَوَضْعًا وَوَضْعًا مِنْ يَدِهِ - ہاتھ سے ڈال دینا۔

مِنْ فُلَانٍ - مرتبہ سے کھانا۔ عَنْ عَرَبِيْمَةٍ - قرص سے کچھ چھوڑنا (وَضَعًا وَوَضْعًا) اَلْبَعِيْرُ - اونٹ کا سر جھکا کر تیز چلنا۔

وَضَعٌ يَضَعُ وَضْعًا وَوَضْعًا وَوَضْعًا وَوَضْعًا - نفشد۔ خود کو ذلیل کرنا۔ وَضَعْتُ وَضْعًا وَوَضْعًا وَوَضْعًا - الْمَرْأَةُ حَمَلَهَا - جنم۔ صفت (وَضَعٌ) وَضَعٌ يُوَضِّعُ وَوَضْعٌ وَوَضْعٌ وَوَضْعٌ وَوَضْعٌ - نفضان

اُكْثَانًا - صفت۔ مَوْضُوْعٌ - جِثَا۔

www.waseemziyai.com

وَضَعُ يَوْضَعُ مَضَعَةٍ وَمَضَعَةٍ وَمَضَعَةٍ
کینہ دُزلیں ہونا۔ حسیں ہونا۔

وَضَعُ الْبِشَى - چوڑنا۔ الحَبَّة - ردی بھر کر
سینا۔ وَضَعَتِ النِّعَامَةُ بَيْضَهَا - شتر
مُرغ کا انڈوں کو تہہ بہہ کرنا۔ البَیْلُ - دلیں
اَوْضَعُ - البَیْلُ - اونٹ کا تیز چلنا۔ البَیْلُ -
اونٹ کو تیز چلانا۔ اَوْضَعُ فِی تَجَادُثِهِ
تجارت میں ٹوٹا پانا۔

وَأَضَعَهُ وَمَضَعًا وَمَوَاضِعَهُ - شرط لگانا
ہا فی الامور کسی امر میں موافقت کرنا۔

وَأَضَعَهُ الْبَيْعُ - بیع چھوڑنا۔
وَأَضَعَهُ الْمَرْهَانُ - شرط باطل کرنا۔ کہتے
ہیں۔ هَلَمْ اَوْضَعْتُ الْمَرْئِي - اُو
ہم ایک دوسرے کو اپنی اپنی رائے سے
مطلع کریں۔

اَتَضَعُ - ذیل دعا جز ہونا۔ لثیم اور گھٹیا
حسب کا ہونا۔ البَیْلُ - اُکبہ۔
سوار کا اونٹ کی گردن کو سوار ہونے کے
لیے جھکانا۔

تَوَاضَعُ - ذلیل و عاجز ہونا۔

تَوَاضَعَتِ الْاَرْضُ - زمین کا لیست
ہونا۔ تَوَاضَعُ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا - متفق
ہونا۔ مَا بَيْنَنَا - دُور ہونا۔

اِسْتَوْضَعُ اِسْتِضَاعًا - منہ گھانے
کے لیے کہنا۔ ہا فی دینہم - قرص میں نرمی
جانبنا۔

الْوَضْعُ - مہ۔ جگہ۔ ج۔ اَوْضَاعُ -

الْوَضْعَةُ وَالْوَضْعَةُ - جگہ۔ مرکز۔

الْوَضْعُ - نا۔ امراةٌ وَاِضْعُ - بے اوہنی
کے عورت۔

الْوَضْعُ - حسیں۔ کینہ۔ امانت۔

الْوَضْعَةُ - قیمت کی کمی۔ امانت۔ ترش

نباتات - عشر یا خراج جو بادشاہ وصول

کرتا ہے۔ منہ بولا بیٹا۔ فوج کا دستہ جو

کسی صوبہ میں رکھا جائے۔ وہ کتاب

جس میں حکمت کی باتیں لکھی جائیں۔ کٹے
ہوئے گیہوں اور گھی سے تیار کردہ کھانا۔

ج۔ وَضَائِعُ - الوَضَائِعُ - مسافروں کا
سامان۔

التَّوَضُّعُ - مہ۔ فِی کَلَامِهِ التَّوَضُّعُ - اس

کے کلام میں زناہ پن ہے۔

المَوْضِعُ وَالْمَوْضِعُ - مہ۔ رکھنے کی جگہ

ج۔ مَوَاضِعُ -

المَوْضِعَةُ - موضع میں ایک اُلفت ہے

کہتے ہیں لَذِي قَلْبِي مَوْضِعَةٌ وَمَوْضِعَةٌ

میرے دل میں اس کی محبت ہے۔

المَوْضِعُ - مفع۔ ٹوٹا ہوا۔ ٹکڑے ٹکڑے

کیا ہوا۔

المَوْضُوعُ - مہ۔ مفع۔ موضوع العلم۔

وہ چیز جس کے عوارض ذائبہ سے علم میں

بحث کی جائے جس طرح جسم انسانی علم

طب کے لیے۔

مَوْضُوعُ الْكَلَامِ - وہ عنوان کلام جس پر

گفتگو چل رہی ہو۔ ج۔ مَوَاضِعُ و

مَوْضُوعَاتُ الْاِتِّحَادِيَّةِ الْمُتَوَضَّعَةِ -

گھڑی ہوئی باتیں۔

وَضَفَ يَضِفُ وَضْفًا وَاَوْضَفَ الْبَعِيرُ

اونٹ کا تیز چلنا۔

وَضَمَّ يَضِمُّ وَضْمًا - اللّٰحْمُ - گوشت

کو تختہ پر رکھنا۔

وَضَمَّ يَضِمُّ وَضْمًا - القوم - جمع ہونا

قریب قریب ہونا۔ بنو فلان علی بنی فلان

فلان کی اولاد فلان کی اولاد کے پاس آئی۔

اَوْضَمَّ اِضْمَامًا - اللّٰحْمُ - گوشت

کو تختہ پر رکھنا۔ الشجر - ایک درخت

پر رکھنا۔

اِسْتَوْضَمَّ اِسْتِضْمَامًا - بطل کرنا۔

الْوَضْمُ - قصاب کا تختہ جس پر وہ گوشت

کاٹتا ہے۔ ج۔ اَوْضَامُ وَاَوْضِمَةُ

کہتے ہیں تَوَكَّلْهُمْ لِحْمًا عَنَى وَضْمٍ

اُس نے ان کو بھیتوں میں ڈال کر ذلیل
اور دکھی کر دیا۔

الْوَضْمُ - دسترخوان۔

الْوَضْمُ - سبابہ اور مبصر کے درمیان

کا حصہ۔

الْوَضْمَةُ - میت کا کھانا۔

(وَالْوَضْمَةُ) تقریباً دو سو سالوں

کی جماعت۔

الْمِضْمَةُ - گوشت کا تختہ رکھنے کی جگہ۔ ج۔

مَوَاضِعُ -

وَضْنٌ يَضِنُّ وَضْنًا - البِشَى - تہ بہہ رکھنا۔

ایک کو دوسرے پر چوڑنا۔ دو گنا کرنا۔

النَّسْعُ - بنتا۔

تَوَضَّعَ لَهُ - ذلیل و عاجز ہونا۔ پیارا بننا۔

اِتَّقَنَ - بے - متصل ہونا۔

الْوَضِيْنُ - تہ بہہ کیا ہوا۔ چوڑا۔ تنگ ہو

تسموں یا بالوں سے بنا ہو۔ ج۔ وَضْنٌ -

المَوْضُوعَةُ - باریک بینی ہوئی ذرہ۔ یا جو جو

سے بنی ہو۔

الْمِضْمَةُ - گھوڑ کے پوں کا بنا ہوا ٹوکڑیا

کھانا۔ ج۔ مَوَاضِعُ -

الْمِضْمَانَةُ - ٹوکڑیا۔ ج۔ مَوَاضِعُ -

دُطَّ يُوْطُّ وَطًّا - المَوْطُاطُ - چمکا دیر کا

آواز کرنا۔ المجل - کچادہ کا چرانا۔

وَطِيَّ يَطُّ وَطًّا - البِشَى - پاجیلہ۔ پاؤں

کے نیچے روندنا۔ الفص - گھوڑے پر سوار

ہونا۔ امراض عدوہ - دشمن کے ملک

میں داخل ہونا۔

وَطَّ يَطُّ وَطًّا - البِشَى - تیار کرنا۔ آسان

کرنا۔

اَوْطُوْرُ يَوْطُوْرُ وَطًّا وَوُطُوْرَةٌ -

المَوْضِعُ - جگہ کا روندنا ہوا ہونا۔ ہموار

ہونا۔

وَطَّا تَوَطَّيْتُ - البِشَى - پاجیلہ۔ پاؤں

سے روندنا۔ الفرائش - بچھونا۔ نرم کرنا۔

الْأَمْرُ - کام کو درست کرنا۔ آسان کرنا۔
 الْمَوْجِعُ - جگہ کو نرم دھوار کرنا۔ الشَّعْوُ
 وَفَيْدٌ - فقط و مضاً تافہ دہرانا۔
 أَوْطَأَ أَيْطَاءً - فلانا الأرض وبالارض۔
 کچلوانا۔ روندوانا۔
 أَدْطَأَ فَرْسَهُ - سوار کرنا۔ أَدْطَأَ
 عَلَى الْأَمْرِ - موافقت کرنا۔
 دَاطَأَ مَوَاطِئَهُ فَلَانَا عَلَى الْأَمْرِ - موافقت
 کرنا۔ فی الشَّعْرِ - بمعنی وَطَأَ
 تَوَطَّأَ - فَلَانَا بِرَحْلَيْهِ - کسی کو پاؤں سے
 کچلنا۔ روندنا۔ عَلى الْأَمْرِ - موافقت
 کرنا۔ تَوَطَّأَ الرَّجُلُ عَلَى الْأَمْرِ - موافقت
 کرنا۔ تَوَاطَّأُوا عَلَى الْأَمْرِ - متفق ہونا۔
 اِنْتَطَاءً اِنْتَطَاءً وَ اِنْتَطَاءً اِنْتَطَاءً - ایٹا
 چیز کا سہل ہونا۔ تیار ہونا۔ الْأَمْرُ -
 کام کا ٹھیک ہونا۔ اور انتہا تک پہنچنا۔
 اِسْتَوْطَأَ - اِشِی - نرم اور روندنا ہوا پانا۔
 الْوُطْءُ - مم۔ (د) الْوُطْءُ لِسِتٍ دِهْمُورِیْنِ
 الْوُطْءُ دِ الْوُطْءِ - فرش۔
 الْوُطْءُ - قدم کی جگہ۔ دباؤ۔ سخت پکڑ
 الْوُطْءُ وَالْوُطْءُ - مم۔ سہولت اور نرمی
 الطَّاءُ وَالطَّاءُ - سہولت درمی۔
 الْوُاطِئَةُ دِ الْوُطْءِ - راستہ میں
 گزرنے والے لوگ۔ گرمی ہوئی کھجوریں۔
 الْوُطْئِ لِسِتٍ - نرم آسان۔ روندنا ہوا۔
 الْوُطِئَةُ - مَوْتُ الْوُطْئِ - دہ کچھوڑ جس
 کی گتلی نکال کر اس کو دودھ میں گوندھ لیا
 جائے۔ نرم عصبہ ڈالے گئی سے تیار
 کردہ کھانا۔ شکر ملا ہوا پنیر۔
 الْمَوْطَأُ دِ الْمَوْطِئِ - قدم کی جگہ۔
 اِیْطَاءً - لِسِتٍ دِ زَمِیْنِ -
 الْمَوْطَأُ - مَفْعٌ - رَجُلٌ مَوْطَأٌ اَلْكَتَاتِ -
 شریف نرم اخلاق والا۔ همان نواز۔ هُوَ
 مَوْطَأٌ الْعَقِبِ - بہت سے متبعین
 رکھنے والا۔

الْوُطْبُ - دودھ کی مُشک۔ ج۔ اَدُطْبُ
 وَ طَابَ دِ اَدُطَابٍ وَجَّحَ اَدُطَابُ
 کہتے ہیں مَصْفُوتٌ وَ طَابَهُ - دہ مرگیا
 یا قتل کیا گیا۔
 الْوُطْبُ - بڑا پستان، سخت صبیحۃ الا۔
 الْوُطْبَاءُ - بڑے پستان والی عورت۔
 وَطَحَهُ يَطِطُحُهُ وَطَحًا وَطِطَحَةً يَقُولُ
 کے ساتھ زور سے پیچھے بٹھانا۔
 تَوَاطَحَ - القوم - ایک دوسرے کیساتھ
 شر و بُرائی کرنا یا لڑنا۔ تَوَاطَحَتِ الْاِیْلُ
 عَلَى الْخَوْفِ - انہوں کا خوف پر پھیر
 کرنا۔
 الْوُطْحُ - مم۔ کھربا چنگل میں لگی ہوئی مٹی۔
 وَطَحَ يَطِطُ وَطَحًا - اِشِی - مضبوط
 کرنا۔ پائیدار کرنا۔ بھاری کرنا۔ صفت
 مضبوطی۔ دِ وَطِئٌ دِ مَوْطُودٌ - الاض
 زین کو کوٹنا تاکہ سخت ہو جائے۔ اِشِی
 الْبِیْہ - مٹانا۔ لَہُ مَنَزَلَةٌ - تیار کرنا۔
 لَا اِلٰی الْاَرْضِ - دبانا۔ جھکانا۔ اِشِی
 ثَابِتٌ وَثَامٌ رہنا۔ چلنا۔ فند۔ الْقَصْحُ
 عَلَى الْفَارِ - تہ نہ رکھنا۔
 وَطَحَ - اِشِی - بمعنی وَطَحَہ -
 تَوَطَّحَ - مضبوط ہونا۔ ثابت ہونا۔
 الْوُاطِحُ وَالْوُطِئُ دِ الْمَوْطُودِ - مضبوط
 و ثابت۔
 الْاَوْطَادُ - پہاڑ۔
 الْوُطِئَةُ - عمارت کی بُناؤ۔ باندی کے
 پوٹے کا پتھر۔ وَطَائِدُ - کہتے ہیں اُنْتِ
 مِنْ وَطَائِدِ الْحَقِّقِ - توسپائی کا
 ستون ہے۔ لَہُ عِنْدَہُ وَطِئَةٌ
 اس کے نزدیک اس کا مرتبہ ہے۔
 الْمِطْطَةُ - درمٹ۔
 الْمَتَوَاطِدُ - مضبوط جما ہوا۔ سخت ایک
 دوسرے کے پیچھے
 الْوُكُطُ - حاجت۔ مطلوب۔ ج۔ اَوْطَارُ

تَقَيَّ مِنْهُ وَطَحًا دِ اَوْطَامًا - اس
 نے اپنے مطلب کو پایا۔
 وَطَسَهُ يَطِطِسُهُ وَطَسًا - بُوٹ وغیرہ سے
 زور سے مارنا۔ اِشِی - توڑنا۔ کوٹنا۔
 تَوَاطَسَ - الْمُوجُ - موجوں کا آپس میں ٹکرنا۔
 الْقَوْمُ عَلَى - قوم نے مجھ پر ہجوم کیا۔
 الْوُطَاسُ - چرواہا۔
 الْوُطِيسُ - تنور۔ بھٹی۔ مَبْدَانِ جَنَکِ -
 حَبِی الْوُطِيسُ - لڑائی سخت ہو گئی۔
 (ج) اَدُطِسَہ وَوُطُسُ -
 اَوْطِيسَةُ - معاملہ کی سختی۔
 وَطَشَهُ يَطِطِشُهُ وَطَشًا - مارتا۔ عَن
 فَلَانٍ - بٹھانا۔ دُور کرنا۔ الْحَدِيثُ اَوْ
 الْخَبَرُ - بات یا خبر کا کچھ حصہ بیان کرنا۔
 الْكَلَامُ - غیرواضح کلام کرنا۔ مَا وَطَشَ
 نَسَانِشِی - یعنی ہم کو کچھ نہیں دیا۔
 وَطَشَ - الْحَدِيثُ - کچھ بیان کرنا۔ لَہُ
 تَقْرِیرِ یا معاملہ کو تیار کرنا۔ ع - کسی کو تھوڑا
 دینا۔ الْقَوْمُ عِنْدَ - دُفع کرنا۔ فِیْہِ
 اِثْرُ کرنا۔ کہتے ہیں - فَتَرِکُوْهُ فَمَا دَکَشَ
 رَا یَہُفُ - لوگوں نے اس کو مارا مگر اس نے
 اُن کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھایا۔
 وَطَفَ يَوْطِفُ وَطَفًا - تھنی آبر دوں یا کپوں
 والا ہونا۔ صفت۔ اَدُطَفَ - مَوْتُ۔ وَطَفًا -
 (ج) دُطَفَ - دِطَفَ الْمَطَرُ - بارش کا
 زور سے برسنا۔
 دَکَفَ يَهْفُ وَطَفًا - شکار وغیرہ کو بھگانا۔
 اور اس کا پیچھا کرنا۔
 الْوُطْفُ - مم۔ جب بادل ٹکے ہوئے ہوں
 کہتے ہیں فِی السَّحَابِیۃِ - دَکَفَ - فَلَانٌ
 اَدُطَفَ - سخت اندھیرا۔ سَابَ اَوْطَفَ -
 زمین کے قریب تک لٹکنے والا بادل عَامٌ
 اَوْطَفَ - فَرَاخِ سَالِی - عَلِیْتُ اَدُطَفَ -
 خوشحال زندگی - الْوُطَاتُ - فِیہ - (ج)
 وَطَانَاتٌ وَطَمَ يَطِطُمُ وَطَمًا - رونا۔ وَکَلَمَ

المستور - پردہ لٹکانا -
 وَكُنْ يَهْنُ وَطَنًا دَاوُظَنَ اِيْطَانًا - باطن
 اتانہ کرنا -
 دَهْنٌ دَاوُظَنٌ وَتَوُظِّنُ دَاظَنٌ وَاسْتَوْظَنَ
 السلد - کسی شہر کو اپنا وطن بنانا -
 دَهْنٌ نَفْسُهُ عَلَى الْاُمْرِ وَلِلْاُمْرِ كَسِي
 پر یا کسی امر کے لیے خود کو آمادہ کرنا - یا
 مائل کرنا -
 وَاطْنَهُ - عَلَى الْاُمْرِ - کسی کے ساتھ کسی
 امر کو کرنے کی ٹھاننا -
 الْوُظُنُ - انسان کی سکونت کی جگہ خواہ وہاں
 پیدا ہوا ہو یا نہ پیدا ہوا ہو - پوشی کے
 باندھنے کی جگہ - ج - اَوْظَانُ -
 الْمُوْظِنُ - وطن - لڑائی کا میدان - (۱۴۱)
 مَوَاطِنُ -
 الْمُطِيطَانُ - میدان گھوڑ دوڑ میں وہ مقام
 جہاں سے گھوڑے چھوڑے جائیں -
 غایت - انتہا -
 وَطُوطٌ - کمزور ہونا - جلدی بولنا -
 الْوُطُوطُ - کمزور عقل و رائے والا آدمی
 جلدی بولنے والا -
 الْوُطُوطُ اَطْلَهْ - جلدی بولنے والی چلنے
 والی -
 وَطَى تَوُظِيَةً - الشی - نیچے کرنا مترہ گھٹانا
 وَظَبٌ يَظِبُ وَظُوبًا - الْاُمْرُ دَعْلُ
 الْاُمْرُ - کسی کام پر ہمیشگی کرنا - (صفت)
 (دَاظِبٌ - دَوْظِبًا) - الشی روزنا -
 وَاطَبٌ مَوَاطِبَةً - عَلَى الْاُمْرِ - کسی
 کام پر مداومت کرنا - لا علی خدمتہ
 فلاں - کسی کی خدمت پر اُکسانا -
 تَوَاطَبَتْ عَلَيْهِ الْوَيَاحُ - ہواؤں کا
 بے دریغ آنا - لگاتار آنا -
 الْمُطِيطُ - گول تیز کیا ہوا پتھر -
 الْمُوْظُوتُ - مفع - رُحْلٌ مَوْظُوتٌ - وہ
 شخص جس کے مال پر مسلسل آفتیں آئیں -

دُظِرَ يُوْظَرُ وَظَرًا - موٹا و پُر گوشت ہونا -
 صفت - دُظِرَ -
 وَظَفَ يَظِفُ وَظْفًا - الْبَعْلُ - اُونٹ
 کے پاؤں کی رسی چھوٹی کرنا - پنڈلی کی ہڈی
 پر مارنا - الْقَوْمُ - پر دی کرنا - الشی
 عَلَى نَفْسِهِ - لازم کرنا - مقرر کرنا -
 وَظَفَهُ - روزنہ مقرر کرنا - وَظَفَ عَلَيْهِ
 عَمَلًا - کام مقرر کرنا - وَظَفَ عَلَى الْبَقِي
 كُلُّ يَوْمٍ حَفْظَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
 بچہ کے یاد کرنے کے چند آیتیں مقرر کرنا -
 وَاطْفَهُ - موافقت کرنا - برابر ساتھ دینا
 اسْتَوْظَفَ - الشی - سب سے لینا -
 الْوُظَيْفُ - جانور کی پنڈلی یا اگلی ٹانگوں
 کی باریکی - ج - دُظْفٌ دَاوْظِفَةٌ -
 الْوُظَيْفُ - سخت زمین میں چلنے کے
 قادر - جَاءَتْ اِلَهُ اِبْلَ عَلَى دُنْيَابِ
 وَاحِدٍ - اُونٹ ایک ہی قطار میں آئے
 الْوُظَيْفَةُ - مقرر کیا ہوا کام یا رزق کھانا
 وغیرہ - عہد - شرط - ج - دُظَايِفُ وَ
 دُظَفٌ - درجہ - نوکری - لبتہ دنیا
 وَظَايِفُ - دنیا میں بہت سی تبدیلیاں
 ہیں -
 الْوُزْعُ - گیدڑ - گیدڑ کی آواز کی نقل - بچے
 کے رونے کی آواز -
 دَعَبٌ يَعْجُبُ وَعَبًا - الشی - سب سے
 لینا - الْاُمْرُ - فارغ ہونا - الْبَجَلُ - پوری
 زبان کا لینا - الشی فی الشی - داخل
 کرنا - فی مَالِهِ - اپنے مال میں اسراف
 کرنا - فضول خرچی کرنا - الْقَوْمُ - سب
 کا نیکل جانا - اور ایک کا باقی نہ رہنا -
 اسْتَوْعَبَ اسْتِغْبَاغًا - الشی - سب
 سے لینا - جَرَّ سَ اَكْهَرًا - الْحَدِيثُ
 بات پوری حاصل کرنا - الْهَكَانُ اَوْ
 الْوَعَامُ الشی - جگہ یا برتن کا چیز کے
 لیے کافی ہونا -

الْوُعْبُ - شاہراہ - کشادہ راستہ - ج - دُعَابُ
 الْوُعْبُ - کشادہ - الْوُعْبُ - کشادہ کیا
 ہوا - هَذَا اَدْعَبُ لَكُنْ ا - یہ فلاں چیز
 کے حاصل کرنے کے لائق ہے -
 دُعَيْتُ يُوْعِثُ وَوُعْثًا وَوُعْثًا وَوُعْثُ
 يُوْعِثُ وَوُعْثَةً - الطریق - راستہ
 کا دشوار گزار ہونا - الْاُمْرُ - خراب ہونا
 مُنْطَلِقُ ہونا - صفت اَدْعَيْتُ وَوُعْثُ
 وَوُعْثُ دَاوْعَيْتُ -
 دُعَيْتُ تُوْعِثُ وَوُعْثًا - يَدُّهُ - ہاتھ دھونا
 صفت (دُعَيْتُ) -
 دُعَيْتُ تُوْعِثُ - عَيْنُ الْاُمْرِ - روکنا -
 اُوْعِثُ - دشوار گزار راستہ میں پڑنا -
 مَالِهِ - مال میں اسراف و فضول خرچی کرنا -
 الْمَتَكَلِمُ - کلام نہ کر سنا - الْاُمْرُ - خوب
 کرنا - فَلَا نَا - دشوار گزار راستہ میں چلنے
 پر اُکسانا -
 الْوُعْثُ - مع - ٹوٹی ہوئی ہڈی - لاغری -
 سخت دشوار - دشوار گزار راستہ -
 ہر شکل کام - ج - دُعَيْتُ وَوُعْثُ -
 الْوُعْثُ - مشقت - زحمان - ہر بری خصلت
 مَرَكِبُهُ لَاعْثَارُ - گناہ کیا -
 الْوُعْثُ - سختی - بُرَائِي -
 الْوُعْثُ - ناقص حسب کا -
 وَعَدٌ يَعِدُ وَعْدًا وَعْدَةً دَاوْعِيدًا
 وَمَوْعِدَةً وَمَوْعِدًا دَاوْعِيدَةً -
 فَلَا نَا الْاُمْرُ دَاوْعِيدًا - وعدہ کرنا -
 وَعَدَتِ الْاَرْضُ - زمین نے اچھی فصل
 کی امید دلائی - (دُعَيْتُ) الْبَجَلُ - دھکی
 دینا - الْفَعْلُ - ساندھ کا بڑ بڑانا -
 اُوْعِدَةُ الْبَعَادُ - وعدہ کرنا - دھکی دینا -
 دَاوْعِدَةُ مَوَاعِدَةٍ - ایک دوسرے سے
 وعدہ کرنا - اَلْمَوْضِعُ اَدِ الْوَقْتُ - وعدہ
 پورہ کرنے کے لیے جگہ یا وقت مقرر کرنا -
 تَوَاعَدَ وَالْقَوْمُ - الْقَوْمُ - ایک دوسرے سے



دورے میں بڑی طرح کرنا۔ میدان جنگ
مرض۔ وعكة الحصى۔ بخار کی شدت
وعكة الظمی۔ معاملہ کی سختی۔
وعكة الیمل۔ اونیوں کے ریلور۔
وعل یعل وعلا۔ المتجمل۔ اوپر سے جھانکنا
وعل الجبل۔ پہاڑ پر چڑھنا۔
استوعل البیہ۔ پناہ لینا۔
استوعلت الودع۔ پہاڑی بکریوں
کا پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنا۔
الوعل والوعل والوعل۔ پہاڑی بکرے۔
ج۔ اوعال ودوعول ودوعل ودوعلة
وموعلة۔ ٹوٹ وعلک ج وعلات
ودعال۔
الوعل۔ شریف۔ پناہ کی جگہ۔ ج۔ اوعال
ودوعول۔ مالک عنہ وعل۔ تجھے
اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ هم
علینا دعل واحد۔ وہ سب ہمارے
خلاف متفق و متحد ہیں۔
الوعلة۔ پہاڑ کا دشوار گزار حقہ۔ من
انقمین۔ تمہیں کا کاج۔ وعلة
الذی یوق۔ لوٹے کا دستہ۔
المستوعل۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہاڑی بکرے
کی جائے پناہ۔ ج۔ مستوعلات۔
وعم وعیم وعیم وعیم۔ الدیاد
خوش باش کہنا۔ عیم صباخا وعیم
مساء اسی سے ہے۔ یعنی مہاری
صبح یا شام اچھی ہو۔

الوعم۔ م۔ پہاڑ میں نشاں ہونا
نک کے نشاں ہونا۔ ج۔ ونام۔
توعن۔ الشی۔ پورا لے لینا۔
توعنت الذابطة۔ جانور کا انتہائی
موتا ہونا۔
الوعن والوعنة۔ سخت زمین۔ زمین
کی وہ سفید جگہیں کچھ بڑے۔ ج۔
وعدان۔ الوعن۔ جائے پناہ۔

وعوع وعوعة وعوعا۔ الکلب
او ابن آدمی کئے یا گیدڑ کا بھونکنا۔
القوم۔ لوگوں کا شور مچانا۔
الوعوع۔ مع۔ لوگوں کی شور مچانیوالی
جماعت۔ بہبودہ گو۔ گیدڑ یا کتے کی اول۔
الوعوع۔ بذر۔ لومری۔ تبلیغ۔ خطیب
بیابان۔ دیدبان۔ ج۔ وعوع۔
وعی یعی وعیم۔ البشی۔ جمع کرنا۔ الحدیث
قبول کرنا۔ غور کرنا۔ یاد کرنا۔ الاذن
سنا۔ القیج فی الجوج زخم میں
پریپ جمع ہونا۔ الجوج۔ زخم کا
پریپ بہانا۔ العظم۔ ہڈی کا ٹوٹنے
کے بعد جھیک ہونا۔

ادعی الیعا۔ الکلام والشی۔ یاد
کرنا۔ جمع کرنا۔ انواد ونحوہ۔ خوراک
برتن میں رکھنا۔ المجل وعلیہ۔ بخل کرنا
رواستوعی استوعا۔ البشی۔
سب لے لینا۔
الوعی۔ پریپ۔ د والوعی۔ شور
مالی عنہ وعی، مجھے اس کے سوا کوئی
چارہ نہیں۔ فاس وعی مضبوط ہونا
الوعاء والوعاء۔ برتن۔ ج۔ اوعیہ
وجیم اذاع۔

الواعی۔ نا۔ داعی الیتیم۔ یتیم کا
سرپرست و محافظ۔
الواعیہ۔ چیخ۔ آواز۔ هو واعی من
نلاین۔ وہ نلاں سے زیادہ یاد کرنے
والا۔ اور سمجھدار ہے۔
الوعی۔ یاد رکھنے والا۔ نفیہ۔ سمجھدار۔
موعی المسخ مضبوط کدائی والا۔
وعب یعب وعابة ودعوبة
الجمل۔ اونٹ کا موٹا ہونا۔

الوعب۔ ردی سامان۔ موٹا اونٹ۔
جسم کا کمزور۔ کمینہ۔ ج۔ اوعاب و
وعاب۔ ٹوٹ۔ وعبة۔

والوعفة۔ بے وقوف۔
وعد یعد وعدا۔ القوم خدمت کرنا۔
وعد یوعد۔ کمزور عقل اور کمینہ ہونا۔
واعدا کا معاخذة۔ کسی کے فعل
کی نقل آنا۔ واعدا فلا نانی البیہ
چلنے میں مقابلہ کرنا اور غالب آنا۔
الوعد۔ کمزور عقل والا۔ بیوقوف۔ کمینہ
بچہ۔ قوم کا خادم۔ غلام۔ ج۔ اوعاد
دعدان ودعدان۔ ٹوٹ۔
وعدا۔ الوعد۔ تیر جس کا جوئے
میں کوئی حصہ نہ لے۔
وعن یعن وعنا۔ الیوم۔ دن کا سخت
گرم ہونا۔ وعنا۔ الشمس۔ تیز
دھوپ پڑنا۔ رو وعن یوعن دبعن
وعن۔ توعیرا۔ علیہ۔ کمینہ رکھنے
پر آسانا۔

الوعنا ایضا۔ عصبناک کرنا۔
اوعو صدماء۔ غصہ سے سب سے بھڑکانا۔
الماء۔ پانی گرم کرنا۔ الی کذا۔ مجبور
کرنا۔ الخنزیر۔ خنزیر کو گرم پانی سے
دھو کر ذبح کرنا۔ اوعنا الملك بدرجہ
امنا و اوعنا انا منا۔ بادشاہ
کا کسی کو بغیر خراج کے زمین دینا۔ القوم
گرمی کے وقت میں آنا۔ اعنا وابینهم
میعنا۔ انھوں نے ہم وقت مقرر کیا۔

توعنا۔ غصہ سے بھڑکانا
الوعنا والوعنا۔ مع۔ کمینہ۔ دشمنی۔
وعنا الحیث۔ فوج کا شور
الوعنا۔ گرمی کی شدت۔
الوعیر۔ گرم ریت پر بھٹنا ہوا گوشت۔
رو الوعیو۔ گرم میقروں سے گرم کیا
ہوا دودھ۔

المیعن۔ مقررہ وقت یا میعاد۔
وعف یعف وعفا وعفا۔ البعد۔
نگاہ کا کمزور ہونا۔

الرجل - جلدی چلنا اور دوڑنا۔

أَوْعَتْ لَا يُغَادَا - المجل - جلدی چلنا اور

دوڑنا۔ کمزور نظر والا ہونا۔ بقدر کفایت

کھانا کھانا۔ الکلب - کتے کا زبان بھانا

الطائر - پرندہ کا جلدی جلدی پھرنانا

وَعَلَ بَعْلٌ وَغَوْلَةٌ - فی الشیء - داخل ہو

کر چھپ جانا۔ دُور ہو جانا۔ دُغْلہ

وَعَوْلٌ - دُغْلہ نَا عَلَی الْقَوْمِ - بغیر ملے

دعوت میں آنا۔ فی العلم و نحوہ۔

علم میں پوری جد جہد کرنا۔ انقوم۔ دشمن

کے ملک میں گھستے ہوئے دُوزخ جے

جانا (وَتَوَعَّلَ) فی البلاد - ملک

میں دُوزخ چلا جانا۔

الْوَعْدُ - مہم۔ کمزور فرومایہ۔ کوتاہی کرنے

والا۔ بغیر بلائے ہوتے کہانے پر اُموجود

ہونے والا جیسے پناہ۔ ایک قسم کا دانہ

جو کبوتر کھاتے ہیں۔ گنجان درخت۔ ج۔

أَوْغَالٌ - دُوالو (معلی) جھوٹے نسب کا

دعویٰ کرنے والا۔ بد خوراک۔

الْوُعَالُ - بہت تعریف کرنے والا۔ بہت

قیمت مانگنے والا۔

الْمُوْعَلُ - جلدی داخل ہونے والا۔

وَعْمَهُ یَعْمُهُ وَغَمًا - غالب آنا۔ بغیر

تحقیق کے خبر سنا کرنا۔

وَعْمَهُ یُوْعِمُهُ وَغَمًا - علیہ۔ کہینہ رکھنا۔

أَوْعْمَهُ - کہینہ در بنانا۔

تَوَعَّمَ - علیہ۔ غضبناک ہونا۔ (وَتَوَاعَمَ)

الْبَطَالُ فی الْحَرْبِ - بہادری کا باہم

سخت قتال کرنا۔

الْوُعْمُ - مہم۔ کہینہ۔ جنگ و قتال۔ نفس

سے وقوف۔ برا بھوکھانا۔ ج۔ اُوغام۔

ساجلی و غم۔ کہینہ در آدمی۔

تَوَعَّنَ تَوَعَّنَا - جنگ میں پیش قدمی کرنے

والا۔ علی السعاجی۔ گناہوں پر اصرار کرنا۔

الْوَعْمُ وَالْوَعْمُ - شور۔ لڑائی۔

وَنَدَّ یَفْدُ وَفَدًا وَفَادَةً د

إِفَادَةً - الی اَوْعَلَ الِاصْبِر - دند

بن کر آنا۔ قاصد بن کر آنا۔ صفت (واحد)

ج۔ (وَفَدَ وَفُودَ وَفَادَ وَوَفَدَ

وَأَوْفَادُ -

أَوْفَدَ إِيْفَادًا - بلند ہونا۔ غلبہ۔ اوپر

سے جھانکنا۔ الرجل - جلدی کرنا۔ الیم

ہرن کا کان دس کر کھڑ کرنا۔ (وَوَفَدَ) فَلَانًا

إِلَى أَوْعَلَ الْاصْبِر - بھیجنا۔ دندرونہ کرنا۔

تَوَفَدَ - علیہ۔ اوپر سے جھانکنا۔

تَوَفَدَتْ إِلَیْهِ أَوِ الطَّيْلُ - اُونُولُ یا

پرنندوں کا ایک دوسرے سے آگے

نکل جانا۔

تَوَافَدَ - انقوم علیہ۔ اکٹھے وارد ہونا۔

اسْتَوْفَدَ - فی قَعْدَتِهِ - غیر مطمئن بھیجنا

ہ دند بھیجنا۔

الْوُفْدُ - مہم۔ وائید کی جمع۔ آدمیوں کی

جماعت جو مشترک کام کے لیے بھیجی جائے

ج۔ (وُفُودُ)۔

الْوُفْدُ - ریتلا ٹیلہ کی چوٹی۔ ج۔ وُفُودُ

وَأَوْفَادُ -

الْوَافِدُ - نا۔ مِنْ اِدْبِلْ وَنَعُوها - سب

سے آگے چلنے والا اڈٹ۔ وغیرہ۔

رخسارے کا وہ حصہ جو طعام چبانے

وقت اونچا ہو جاتا ہے۔

الْوُفَادُ - بہت دند والا۔

وَفَرَ یَفِرُّ وَفَرًا وَفِرَّةً - لہ الامال۔

زیادہ کرنا۔ پورا کرنا۔

عِزٌّ فَلَانٍ - عزت کی حفاظت کرنا اور

گالی نہ دینا۔ کہتے ہیں وَفَرَتْهُ عِرْضُهُ

میں نے اس کی تعریف کی اور عیب جوئی

نہ کی۔ غطائک - رضا مندی کے ساتھ

واپس کر دینا یا کم جان کر واپس کرنا۔

الشوب - کپڑے کو فراخ قطع کرنا۔

دَوَفَرًا وَفُوفًا وَفِرَّةً وَفَرًا یُفَرُّ

دَنَا نَةً - المال دَالْمَتَاعُ - مال یا

سامان زیادہ کرنا۔

وَقَرَّ تَوَفِيرًا - الشیء - چہرہ کو زیادہ کرنا۔

یَفْلَانٌ عَمْرَضَهُ - حفاظت کرنا۔ گالی

نہ دینا۔ المال - کم نہ کرنا۔ حِصَّةٌ مِنْ

المال - باقی رکھنا۔ علیہ حقہ۔

کسی کا پورا حق دے دینا۔ الثوب۔

کپڑا کشادہ کرنا۔ یَفْلَانٌ طَعَامَهُ

خوراک مکمل کرنا۔ اللہ حَظَّهُ مِنْ

کَذَا - کامل کرنا۔

أَوْفَرَ - فَلَانٍ الشیء - زیادہ کرنا۔ پورا کرنا۔

تَوَفَّرَ - عَلَی کَذَا - اپنی ہمت صرف

کرنا۔ عَلَی صَاحِبِهِ - عزت و حرمت کا

کا لحاظ رکھنا۔

تَوَافَرًا وَاقْتَصًا - الشیء - زیادہ ہونا۔

اسْتَوْفَرَ - الشیء - پورا کرنا۔ الحق - حق

پورا لے لینا۔

الْوُفْرُ - مہم۔ دولت مندی۔ مِنَ الْمَالِ -

اَوِ الْمَتَاعِ - کثرت۔ ج۔ وُفُورًا -

الْوُفْرُ تَا - کثرت۔ بہتات۔ کانوں۔

شک بے باں۔ ج۔ وُفْرًا -

الْوَافِرُ - نا۔ علم عرض کی ایک بحر۔

الْوَافِرَةُ - ثَوْبٌ - الوافِر - دُنبہ کی

بڑی چکدی۔

الْوُفْرُ - کامل۔ تمام۔

الْوُفْرُ اِخْر - بھرا ہوا۔ مَرَادَةٌ وَفَرَاءُ

پوری کھال۔ اُذُنٌ وَفْرَاءُ - بڑا

کان۔ اَمْرٌ خُفٌّ وَفْرَاءُ - بہت گھاس

والی زمین۔ قَوْمٌ مَتَوَافِرُونَ - بہت

لوگ۔

الْمَوْفَرُ - مہم۔ الْمَوْفَرُ - الشیء - بے

اور بہت بالوں والا۔

تَرَكْتُهُ عَلَی سَیِّئٍ مَوْفَرًا - میں نے

اس کو اچھی حالت میں چھوڑا۔

الْمَوْفَرُ - مکمل چیز۔

أَوْفَىٰ لَا يُفَامَنُ ۱ - جلدی کرنا۔
وَأَفْنَىٰ ۲ - جلدی کرنا۔

تَوَفَّرَ ۳ - ملازم۔ کام کے لیے تیار ہونا
أَخَذَ يَتَوَفَّرُ عَلَىٰ فِئَاشِهِ ۴ - وہ
بستر پر بیقرار ہونے لگا۔

اسْتَوْفَىٰ اسْتِيفَانًا ۱ - فی نَحْدَتِهِ
وہ اس طرح بیٹھا کہ فوراً اٹھ سکے۔

أَوْفَىٰ وَالْوَفَىٰ ۲ - جلدی۔ ج۔ اَوْفَانِ
وَدَفَانِ ۳ - مکانِ دَفْنِ ۴ - کہا جاتا ہے

نَحْنُ عَلَىٰ دَفْنِ اَعْدَائِنَا دَفْنًا وَدَفْنًا
ہم مردانہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔

أَوْفَىٰ اِيْفَانًا ۱ - تیز چلنا اور دوڑنا۔
۲ - دھنکارنا۔ الابل۔ اونٹوں کو جدا
جدا کرنا۔ المرجل۔ پیچھے کے لیے فرش

بجھانا۔
اسْتَوْفَىٰ اسْتِيفَانًا ۱ - جلدی کرنا

دوڑنا۔ الابل۔ اونٹوں کا بکھرنا۔ ۲ -
جلدی کرنا۔ دھنکارنا۔

الْوَفَىٰ وَالْوَفَىٰ ۳ - مع۔ عجلت۔ ج۔
اَوْفَانِ ۴ -

الْوَفَانِ ۱ - چکی کے نیچے رکھنے کا چمڑا۔
بانی روکنے کی جگہ۔ ج۔ دَفْنِ ۲ -

الْوَفْنَةُ ۳ - چمڑے کا ترکش۔ گذریہ کا قبیلہ
اوپر کے ہونٹ پر مونچھوں کے درمیان

کا ٹڑھا۔ ج۔ دَفَانِ ۴ -

الْاَوْفَانِ ۱ - لوگوں کی مختلف جماعتیں۔
الْوَفْعُ ۲ - اونچی عمارت یا جگہ۔ غلام دَفْعِ

ج۔ دَفْعَانِ ۳ - دَفْعَةً ۴ -
نوجوان لڑکا۔

الْوَفِيْعَةُ ۱ - تلم صاف کرنے کا چپٹھا۔
الْوَفِيْعَةُ ۲ - الوَفِيْعَةُ ۳ - الوَفِيْعَةُ ۴ - الوَفِيْعَةُ

وَالْوَفَانِ ۱ - شیشی کا ڈاٹ۔
دَفْنِ يَمِيْنٍ دَفْنًا ۲ - الامس۔ موافق پانا
امس۔ موافق ہونا۔

دَفَقَ ۱ - الامس۔ موافق بنانا۔ ۲ - الله۔
درست کرنا۔ ۳ - الله للخير۔ اہام

کرنا۔ بین القوم۔ قوم کے درمیان
اصلاح کرنا۔ دَفَقْتُ لَهُ ۴ - اس نے

مجھے پایا۔ مجھ سے ملاقات کی۔
دَفَقَهُ دَفْقًا وَوَفَقَةً ۱ - پانا۔ ملنا

۲ - فی اعلیٰ الشیء۔ موافق ہونا۔
بین الشیئین۔ دو چیزوں کو جوڑنا۔

اَوْفَقَ ۳ - القوم له۔ قریب ہونا۔
اتفاق کرنا۔ اَوْفَقَ لِمَا يَدِيقَاؤُنَا

زید اچانک ہمیں ملا۔ اَوْفَقَ السهم
دبا سهم۔ تیر چلانے کے لیے فوق

کو تانت پر رکھنا۔
تَوَفَّقَ ۱ - کوشش بار آور ہونا۔ خدا سے

توفیق و مدد پانا۔
تَوَفَّقَ ۲ - القوم فی الامر۔ اتفاق

کرنا۔
اسْتَوْفَقَ اسْتِيفَاقًا ۱ - الله۔ الله

سے توفیق چاہنا۔
الْوَفَقِ ۲ - مع۔ دو چیزوں کے درمیان

مطابقت۔ بقدر کفایت۔
جَاءَ الْقَوْمُ دَفْقًا ۱ - لوگ اتفاق

سے آئے۔ كَسْبُهُ دَفَقٌ عِيَالِهِ
اس کی کمائی اس کے اہل و عیال

کے لیے کافی ہے۔ اَتَيْتُهُ دَفَقٌ
طَلَعَتِ الشَّمْسُ ۲ - میں اس کے

پاس طلوع آفتاب کے وقت آیا۔
التَّوَفَّقِ ۳ - مع۔ تَوَفَّقِ الْهلال وَ

تَوَفَّقِهِ دَتِيفَاتِهِ دَتِيفَاتِهِ
وَتَوَفَّقَهُ دَتِيفَاتِهِ ۴ - نئے چاند

کا پیدا ہونا۔
المَوْفَقِ ۱ - مع۔ اِنَّ لَنَا مَوْفَقًا

فلان نیک آدمی ہے۔
وَكُلُّ يَمِيْنٍ وَفْلًا ۲ - الشیء۔ چھینا۔
وَكُلُّ تَوَفِيْلًا ۳ - زیادہ کرنا۔ چھینا۔

الْوَفْلُ ۱ - مقوی چیز۔
وَفْلُهُ يَغْنُ دَفْلًا ۲ - التَّصَوُّرُ ۱ - گرجے

کا خادم ہونا۔ اَوَافُهُ ۳ - گرجے کا
ناظم و نگران۔

اَوَافُهُ ۴ - گرجے کے ناظم کی تنخواہ۔
اَوَفِيَّتُهُ ۵ - گرجے کے ناظم کا رتبہ۔

وَفِي يَفِي ۱ - دَفَاءً ۲ - بِالْوَعْدِ اَوَالِ الْعَهْدِ
پورا کرنا۔ المنس۔ نذر پوری کرنا۔

الشیء۔ دراز ہونا۔ مَاتَ فَلَانٌ وَ
اَمْتُ لَوْنًا ۳ - فلان مر گیا اور تیری عمر

لمبی ہو۔ مَرَّ لَيْشُ الْجَنَاحِ ۴ - بازوؤں کے
پروں کا پورا ہونا۔ (دُفِيًا) الشیء کامل

ہونا۔ بَهِتَ ہونا۔ الدمر هم المثال
برابر ہونا۔ ہم وزن ہونا۔ هُنَّ الشیء

لَهُ يَفِي بِدَلِكِ ۱ - یہ چیز اس کے برابر
نہیں۔

دَفِي تَوَفِيَّةً ۲ - الرجل حَقَّهُ ۳ - حق پورا
دینا۔

اَوْفَى اِيْفَانًا ۱ - بِالْوَعْدِ ۲ - وعدہ پورا کرنا۔
المنس۔ نذر پوری کرنا۔ اَلْكَفِيْلُ

پیمانہ پورا پانا۔
فَلَانًا حَقَّهُ ۳ - پورا حق ادا کرنا۔

المكان ۴ - آنا۔ عَلَى الْمَكَانِ ۱ - اوپر
سے جھانکنا علی المنة ۲ - تو سے زائد

ہونا۔ علی الشیء دَفِي الشیء ۳ - اوپر سے
جھانکنا۔

دَانِي مَا اَفَاةً ۱ - فَلَانًا حَقَّهُ ۲ - حق پورا
دینا۔ الرجل آنا۔ یک بیک آنا۔ وَ

اَكَاةُ الْحَمَامِ اَوَالِ الْكِتَابِ ۳ - موت یا
خطا کا آنا۔

تَوَانِي تَوَانِيًا ۱ - القوم ۲ - تمام قوم آگئی۔
تَوَانِي تَوَانِيًا ۳ - حق پورا ہونا۔

حَقَّهُ ۴ - پورا حق لے لینا۔
المدة ۱ - مدت کو پہنچنا۔
الشیء ۲ - مکمل کرنا۔ عَدَدُ الْقَوْمِ

وَقَدْ يَفْقَهُونَ ۚ - الْعِظْمُ - هَذِي يَهْدِيَنَا
وَقَدْ الْعِظْمُ - هَذِي كَالْيَهْدِيَنَا - ضَمَمْتُ
مَوْتَوْسًا وَفَقِيهًا ۚ - (فَقِيهًا) وَفَقَامًا
وَقَدْ ۚ اَوْفَقًا يَوْفَقُ وَفَقَامًا وَفَقَامًا

المَجْل - بادقار ہونا - ثابت رہنا -
 دَقْرًا یَقْرُ دَقْرًا دَقْرًا مَاقَ - رَجَی بَنَیْہ
 گھر میں دقار کے ساتھ بیٹھنا - دَقْرًا ت
 تَقْرًا دَقْرًا تَقْرًا دَقْرًا دَقْرًا تَقْرًا
 اذَلْہ - بھرا ہونا - اُوچا سنا - صفت
 دَقْرًا مَاقَ
 دَقْرًا تَقْرِی - الشَّیْخ - تعظیم کرنا -
 عزت کرنا - فلافا - زخمی کرنا - الدَّابَّة
 آرام دینا - یسینی - نشان بنانا - دَقْرًا
 الاسْفَام - سفروں نے مجھ کو مشاق
 بنادیا -
 اَدَقْرًا اِنْفَارًا دَقْرًا - الدَّابَّة جاور
 پر بھاری بوجھ لادنا - اَدَقْرًا تَب النخلة
 وَاَوْقَرًا ت - بہت بھلدار ہونا - صفت
 دَمَوْقَر دَمَوْقَر دَمَوْقَر (الذین
 فلافا - قرض کا کسی کو گراں بار کرنا -
 تَوْقَر دَا تَقْر - بادقار ہونا -
 اسْتَوْقَرَتْ اسْتِنْقَارًا - الدَّابَّة
 اُوت کا موٹا ہونا - بھاری بوجھ اٹھانا -
 اَلْوَقْر - مع - پٹلی کا شکاف - پیچھے یا
 بڑی میں گڑھا یا شکاف - ج - دَقْرًا
 فی مَدْرَبَہ دَقْرًا - اس کے دل میں
 کینہ ہے -
 اَلْوَقْر - بھاری بوجھ - پانی سے بوجھل ہون
 ج - اَوَقْرًا -
 اَلْوَقْر - گڑھا یا پتھر اور بڑی میں شکاف -
 دَفْرَا الدَّاهِر - زمانہ کی سختی و مصیبت
 ج - دَقْرًا اَت - اَلْوَقْرًا ت - نشانات
 اَلْقَرَّ - بوجھ - بکریوں کا دیور - اہل و
 عیال - بہت بوڑھا - بیماری کا وقت
 ج قِرَات
 اَلْوَقْر - بکریوں اور بھیڑوں کا چرواہا یا
 ان کا جمع کرنے والا -
 اَلْوَقْر - سنجیدگی - عظمت -
 (وَالْوَقْر) مِنَ الْمَجَالِ سَبِیْہ

بادقار - اَلْوَقْر - (مذکر و مؤنث)
 بادقار - ج - وَقْرًا -
 اَلْوَقْرِ - ترخی ہوئی بڑی - بکریوں کا گلہ
 لوگوں کا گردہ - ذیل بے عزت -
 (وَالْوَقْرِ) چٹان کا بڑا گردہ جو پانی
 روکتا ہے -
 اَلْمَوْقَر - حَرْب - عقلمند - تجربہ کار -
 اَلْمَوْقِر - بہار کے دامن کا میدان -
 اَلْیَنْفَار - مِثْلُ الْمَغْل - پھل سے لڑی
 ہوئی کھجور - ج - مَوَاقِرُ -
 وَهْنٌ یَقِیْسُ وَهْنًا - الجَوْبُ فی بَدْنِہ
 خارش کا بدن میں پھیل جانا - الفلحشہ
 بُرِیَات کا ذکر کرنا - اَیْہَا الْمَمْلُکَہ الْاِیْم
 لُکَا - الحِلْد - کھال چھیلنا -
 وَتَس - اَلْاَبِل - لکھی لگانا -
 اَلْاَوَقَاس - ادبائش لوگوں کی پارٹی -
 دَقَشَ یَقِیْتُ دَقْشًا - الرسم - نشان کا
 مِثْل - مِثْلُ فُلَانٍ - کسی کے بخش پانا -
 (وَالْوَقْش) لَہْ بَشِی - کچھ غفور اس
 دینا -
 تَوْقَش - حرکت کرنا -
 اَلْوَقْشُ وَالْوَقْشَةُ وَالْوَقْشَةُ - آواز
 حرکت - اَلْوَقْش - عیب -
 اَلْوَقْشُ وَالْوَقْشُ - آگ سلکانے کی
 لکڑی کی چھپیاں -
 اَلْاَوَقَاش - ادبائش -
 دَقَصَ یَقِیْصُ وَفَصًا - عنقہ - گردن
 تَوْرًا - وَفَصَتْ الْعَنْقُ گردن ٹوٹنا
 بِلِہ الدَّابَّة - جانور کا کسی کو گرا کر
 گردن توڑ دینا - وَفَقَ الشَّیْء - عیب
 لگانا - گھانا - مَرَّاسَہ - نیچے سے دبانا -
 وَفَقَ - الْمَجْل - شکستہ گردن والا ہونا
 صفت (مَوْقُوص) -
 دَقِصَ یَوْقِصُ وَفَصًا - کوتاہ گردن ہونا
 صفت - (اَدَقِص) مَوْنُث (وَقِصَاہ)

ج - (وَقِص) -
 وَفَقَ - عنقہ - گردن توڑنا - عَلَی النَّسَامِ
 آگ پر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالنا -
 اَدَقِصَہ - کوتاہ گردن پیدا کرنا -
 تَوْفَقَ - البَعِیْد - اُونٹ کا دُلکی چلنا -
 تَوَافَقَ - چھوٹے گردن والے کی طرح ہونا -
 اَلْوَقِص - عیب - علم عروض کی اصطلاح میں
 حرف ثانی متحرک کو گرا دینا -
 اَلْوَقِص - مع - آگ سلکانے کی چھوٹی چھوٹی
 لکڑیاں - ج - اَدَوَاقِص -
 اَلْاَوَاقِص - غلوٹ گردہ -
 اَلْوَقَاص - پرندوں کے شکار کا جال - ج
 وَفَاقِیص - خَنَ اَوَقِصَ الطَّرِیْقَیْنِ
 دو راستوں میں سب سے چھوٹا راستہ
 اختیار کرو -
 اَلْوَقِصَہ - ج - وَفَاقِص - گردن کا منکبا -
 اَلْمَوْقُوص - مع - ٹوٹا ہوا - عروض کی
 اصطلاح میں وہ وزن جس کا حرف ثانی
 متحرک گرا دیا گیا ہو -
 وَقَطَ یَقِیْطُ وَفَطًا - پھاڑنا - مار کر سُست
 کر دینا - وَقَطَ فِی مَرَّاسِہ - سر میں بوجھ
 محسوس کرنا -
 وَقَطَ - المَصْحُور - چٹان کا گڑھے والا ہونا -
 اسْتَوْقَطَ - اسْتِنْقَاطًا - المَکَان - جالور کا
 یا انسانوں کے رونے سے کسی جگہ
 گڑھا پڑنا -
 اَلْوَقَطُ وَالْوَقِیْطَہ - وہ گڑھا جس میں بارش کا
 پانی جمع ہو - ج - اَدَوَاقَط -
 اَلْوَقِیْط - ج - وَفَاطُ وَفَاطَانُ وَفَاطَہ -
 بارش کے پانی کا گڑھا - ج - وَفَقَی وَفَاقَہ -
 ہرست مار سے ہو یا مرض شکم میری سے بے
 خوابی سے کسندہ اس سے مَوْنُث بھی وَفِیْط
 ہی ہے -
 وَفَطَہ یَقِیْطُہ وَفَطًا - ایسی سختی سے مارنا کہ
 قریب بہ ہلاکت ہو جائے - وَفَطَ عَلَی الْاَمْرِ

کسی امر پر بند و مت کرنا۔

الْوَقِيطُ - وہ شخص جو اُٹھ نہ سکے۔

وَقَعَ يَقَعُ وَقْعًا الشَّيْءُ مِنْ يَدِي - چیز کا ہاتھ سے گرنا۔ الحق ثابت ہونا۔

النُّقُولُ عَلَيْهِمْ - واجب ہونا۔ الِاهِلُ۔

اَوْتُ كَابِطًا - الدواب جالوروں کا

بھیٹنا۔ رُبَيْعٌ يَأْكُرُ دُرَيْنَ - موسمِ خریف میں

پہلی بارش برسا۔ اس کے لیے سَقَطَ

مستعمل نہیں۔ الطَّيْرُ عَلَى شَجَرٍ اَوْ

اَرْضٍ - پرندہ کا درخت یا زمین پر بیٹھا صفت

دُوْقُوعٌ وَ دُقُوعٌ - (فِي الْمَشْبَكِ جَالٌ

میں بھینسا۔ فِی اَرْضٍ فَلَاةٌ - داخل ہونا۔

المرجل فی عملہ - کام میں نرمی برتنا۔

فِی الْعَمَلِ - کام شروع کرنا۔ الْكَلَامُ فِی

نَفْسِهِ - کلام کا دل میں اُتر کرنا۔ اَلْمُرُ

حَاصِلٌ هُوَ - وَقَعَ لَهُ وَقْعٌ - اسکو ایک

حادثہ پیش آیا۔ (وَقُوعًا وَقِيعَةً) فِی فَلَانٍ

کالی دینا۔ عیب لگانا۔ غیبت کرنا دُوقَعًا

اِلَى كُنَا - تیزیزر جانا۔ مِنْ كُنَا اَوْعِنَ

كُنَا اَوْ كُنَا - برطرف ہونا۔ النصل با

الْمِيقَعَةِ - پھیل کو تیز کرنا۔ صفت مغولی

دَوْنِجُ - البعير - اونٹ کی رانوں کے

کنا روں پر گول داغ لگانا۔ دَوْنِجًا وَ دَوْنِجَةً

بِالْعَدُوِّ - دشمن سے سخت مقابلہ کرنا۔

وَقَعَ عِنْدَ فَلَانٍ مَوْقِعًا حَسَنًا - کسی

سے حصہ اور مرتبہ پانا۔ وَقَعَ الْاُمَرُ

مِنْهُ مَوْقِعًا حَسَنًا اَوْ سَيِّئًا - اس سے

کام اچھے یا بُرے موقع پر واقع ہوا۔ فَلَانٌ

لَا يَسِفُتُ وَلَهُ يَقَعُ - فلاں کام کے قریب

ہوتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ وَ هَذِهِ نَعْلٌ

لَهُ تَقَعُ عَلَى مِرْجَلِي - یہ جوتا میرے پاؤں

کے مناسب نہیں۔

وَقَعَ فِي يَدِي - نادم ہونا۔

وَقَعَ يَوْ قَعٌ وَقَعًا - ننگے پاؤں چلنا۔

سمتی زمین یا پتھروں کی وجہ سے پیروں کا

دُكُلًا - صفت (وَقَعَ)

دَقَعَ - اَلْوَبْرُ ظَهْرُ الْبَعِيرِ - نشانِ دان

الْمَطْلُ الْأَمْرُ - کہیں لگانا اور کہیں نہ

لگانا۔ الْعَهْدُ اَوْ الْعِزْمَانُ - شاہی مہر

لگانا۔ الْكِتَابُ اَوْ الْمَضْكُ - کتاب چیک

پراپنے دستخط کرنا۔ الْكِتَابُ فِي الْكِتَابِ

فَضُولُ چیزوں کو سذف کرنا۔ الْاِبِلُ - اونٹ

کا بیٹھنا۔ وَقَعَ ظَنُّهُ عَلَى الشَّيْءِ - اندازہ

کرنا۔ عَلَى فَلَانٍ - گمان کرنا۔ الصَّيْقَلُ

عَلَى السَّيْفِ - تلوار کو تیز کرنے کے لیے

متوجہ ہونا۔ الْمَجَامِرُ تَحَا فِئَا - کھڑکے

سرے کو کھڑکے سرے کر دینا۔ الْقَوْمُ -

آخرات میں آرام کرنے کے لیے اُترنا۔

وَأَقَعَهُ وَقَاعًا وَ مَوَاقِعَةً - لڑائی کرنا۔

جنگ کرنا۔ وَقَعَ الْأُمُورُ - اُمور کے

قریب ہونا اور اُن کو کرنا۔

أَوْقَعَهُ اِيْقَاعًا - واقع کرنا۔ أَوْقَعَ بِأَ

لَعْدُوٍّ - دشمن پر لوٹ پڑنا۔ بِدِ الشَّرِّ

بدی میں الجھنا دینا۔ الْمَدَّ هَرَبًا - زمانہ

کا کسی پر مصائب ڈالنا۔ الدَّوْحَةُ - پانی

روک لینا۔

تَوَقَّعَ - الْأَمْرَ - حاصل ہونے کی امید کرنا۔

تَوَاقَعَ - الْأَعْدَاءُ - دشمنوں کا آپس میں

لڑنا۔ ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔

اسْتَوَقَعَ - الْأَمْرَ - حصول کا انتظار کرنا

خوف کھانا۔ السَّيْفِ - تیز ہونے کے

قابل ہونا۔

الْوَقَعَ - ممر - چوٹ کی آواز۔ پہاڑ کی بلند

جگہ۔ وہ بادل جو بارش کی امید دلائے۔

چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ واحد - وَقْعَةٌ

کہتے ہیں لَفْلَانٍ وَقَعَ عِنْدَ الْأَمِيرِ

امیر کے نزدیک فلاں کی قدر و منزلت ہے۔

اَلْوَقَعَ - بَارِشُ کی اُمید دلانوالا بادل۔

الْوَقْعَةُ - ایک بار کا گرنا۔ ایک ضرب۔

لڑائی کا صدمہ۔ آخری رات کی نیند۔ دن ہیں

ایک بار کی قتلے حاجت۔

وَقْعَةُ السَّيْفِ - تلوار کا پڑنا۔ ج۔ وَقَعَات

الْوَقْعَةُ - وَقَعَ کا اسمِ نوع۔

المَوْقِعُ - ممر۔ دستخط۔ فیصلہ پر شاہی

مہر۔ رائے۔ کتاب سے فارغ ہونے

کے بعد ضمیمہ لگانا۔ ج۔ تَوَاقِعُ

الْاِيْقَاعُ - ممر۔ سرور کی موز و نیت۔

الْوَاقِعُ - فَا - طَائِرٌ وَاقِعٌ - درخت پر

یا گھونسلے میں رہنے والا پرندہ۔ ج۔

وَقَعَ وَ دَوَّقِعَ - مَرَجَلٌ وَاقِعٌ -

الطَّيْرُ - نرم مزاج کا آدمی۔

النَّسْرُ الْوَاقِعُ - ایک ستارہ کا نام۔

الْوَاقِعَةُ - مَوْتُ - الواقِع - لڑائی کا مقام

مُصِيبَت - قیامت۔ مَرَجَلٌ وَاقِعَةٌ -

بہادر آدمی۔

الْوَقَاعَةُ - زمین کی سختی جس کی وجہ سے

پانی جذب نہ ہو۔

وَقَاعَةُ - السَّقَرُ - زمین پر پردہ کے

پڑنے کی جگہ۔

المَوْقِعُ - تیز کیا ہوا پھل۔ پتھروں سے

رگڑ کھایا ہوا کھردہ سخت زمین جو پانی

کو جذب نہ کرے۔ ج۔ وَقَعَ -

المَوْقِعَةُ - لڑائی کا مقام۔ غیبت۔

پانی کا گرہا۔ ج۔ وَقَعَ دَقَالِجُ -

وَقِيعَةُ الطَّيْرِ - پرندے کے اُترنے

کی جگہ۔ جہاں وہ آنے کا عادی ہو۔

وَقَالَعَ الْعَرَبُ - عرب کی لڑائیاں۔

الْوَقَاعُ وَالْوَقَاعَةُ - لوگوں کی غیبت کرنے

والا۔

المَوْقِعُ - گرنے کی جگہ۔ جائے دَوَّقِعَ -

ج۔ مَوَاقِعُ -

مَوَقَعَةُ الطَّائِرِ - پرندے کے اُترنے

کی جگہ۔ ج۔ مَوَاقِعُ -

المِيقَعَةُ - پتھوریا۔ وہ لکڑی جس پر

دھوبی کپڑے کو ٹٹا ہے۔



سَان رُكْنِي كَالْمَا يَحْتَرُ -
مَيْقُتَةُ النَّظَارِ - پرنده کے
اُترنے کی جگہ جس سے وہ اُفت کُفَا
ہو - ج - مَوَاقِعُ -
الْمَوْقِعُ - نا - جگہ قدم رکھنے والا - شاہی
بُہر کی بگرائی کرنے والا - فرمان شاہی
کا رکھنے والا -

الْمَوْقِعُ - منع - مصیبت زدہ - بہت
چلنے والا راستہ - تیز کی ہوئی چھری -
الْمَوْقُوعُ - پھردوں سے گر کر کھایا ہوا
کھڑ -

وَقَفْتُ يَقِيفُ وَقْفًا وَتَوْفًا - بھڑنا
کھڑا ہونا - چُپ چاپ کھڑا ہونا -
فِي الْمَسْأَلَةِ - مسئلہ میں شک کرنا
القَامِرِيُّ عَلَى الْكَافِيَةِ - پڑھنے میں
آخری حرف کو ساکن کرنا - وَقَفْتُ
عَلَى الْأَمْرِ - کسی امر کو سمجھنا اور اس
سے مطلع ہونا - (دَقَفًا) الدَابَّةُ
جالور کو بھڑانا - عَنِ الشَّيْءِ - روکنا
منع کرنا - الدَّامِرُ - گھر کو وقف کرنا -
وَقَفْتُ الْأَمْرَ عَلَى حَضْوَرِ فَلَانٍ
معاملہ کو کسی کی موجودگی پر موقوف رکھنا
عَلَى الذَّنْبِ - خبردار کرنا - الْفَقْدُ
بِالْمَيْقَاتِ - ہانڈی کے اوجھان کو
دُور سے کم کرنا - عَلَيْهِ - معائنہ
کرنا - (وَقِيفِي) المصنوعي - گرجا
کی خدمت کرنا -

وَقَفْتُ - کھڑا کرنا - التَّوَسُّمُ - دُھال
کے گرد لوہے کا حلقہ بنانا - الْمَثَا
عورت کو کنگن پہنانا - السَّوْجُ -
زمین کی درستی کرنا - الْعَدَايَةُ -
بیان کرنا - الْقَامِرِيُّ - پڑھنے
والے کو وقف کے مواقع بتانا -
اور وقف کی جگہیں سکھانا - الْعَبِيثُ
ایک دوسرے کے پیچھے کھڑا ہونا -

وَقَفْتُ الْمَثَا يَدِيهَا بِالْخَنَاءِ
عورت کا ہاتھوں کو ہنڈی کے رُكْنِ
سے نچلے دار کرنا - وَقَفْتُ الدَابَّةَ
جالور کو بھڑانا - فَلَانًا عَلَى ذَنْبِهِ -
باخبر کرنا - مطلع کرنا -
وَأَفَقَهُ - مَوَافَقُهُ وَوَقَاتًا - فِي الْعَرَبِ
أَوِ الْمُخْصُومَةِ - ایک دوسرے
کے مقابل کھڑا ہونا - لَا عَلَى كَذَا -
ثابت رہنے کے لیے کہنا -

أَوْقَفَهُ - کھڑا کرنا - أَوْقَفْتُ الدَّامِرَ
کو وقف کرنا - الْجَارِيَةُ - لڑکی
کے لیے کنگن بنانا - عَنِ الْأَمْرِ كَيْ
ر امر سے رُك جانا -
تَوَقَّفْتُ - فِي الْمَكَانِ - بھڑنا - عَلَى الْأَمْرِ
کسی امر پر رُك جانا - ثابت قدم ہونا -
مَنْ كَذَا - رُكنا -

تَوَقَّفْتُ - الْقَوْمَ فِي الْعَرَبِ - ایک
دوسرے کے پیچھے کھڑا ہونا -
اسْتَوْقَفَهُ - کھڑے ہونے کے لیے کہنا -
الْوَقْفُ - مِمَّ - کلمہ کو بعد کے کلام سے
جُدا کرنا - اصطلاح علم عروض میں
ساتویں متحرک حرف کو ساکن کرنا -
کنگن - لوہے کا سینگ کا حلقہ -
کسی چیز کو اللہ کے راستہ میں وقف
کرنا - وَقَفْتُ شَيْءًا كَوْفِي وَقَفْتُ
کتے ہیں - ج - أَوْقَاتٌ وَوَقُوفٌ -
أَوْقَفَهُ - شَكَب - بھڑاؤ - دُھال
کے گرد حلقہ -

الْوَقِيفَةُ - شکار جو تھک کر کھڑا ہو جائے -
التَّوَقِيفُ - مِمَّ - جوئے کے تیر کا نشان
کنگن کی جگہ کی سفیدی - جالور کی
ٹانگوں میں کنگن کی طرح کی دھاریاں -
الْوَقِيفُ - نا - ج - وَقَفْتُ - دَوَقُوتُ
الَّذِي رَاهُ فِي خَرْقٍ كَرْنِي وَالَا -
أَوْقَاتٌ - الْوَقَافَةُ - دیر دستی کرنا یا

لَوَائِي سَے رُكنے والا -
الْمَوْقِفُ وَالْمَوْقِفَةُ - بھڑنے کی جگہ -
پرنہ نشین عورت کے ہاتھ، آنکھیں اور
وہ اعضاء جن کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں -
الْمَوْقِفَانِ - دُبر کے پاس کی دو رُكس -
الْمَوْقِفُ - منع - دونوں ہاتھوں پر گول
داغوں والا جالور - سَرَجِيْنُ مَوْقِفُ -
جگرہ کار آدمی - سَرَجِيْنُ مَوْقِفُ عُلَى
الْحَقِّ - حق کا پیرو -

الْمَيْقُتُ وَالْمَيْقَاتُ - لکڑی کی ڈوٹی -
رَقْلٌ يَقْلُ وَقْلًا - ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا -
رَقْلٌ يَقْلُ فِي الْعَبِلِ - پہاڑ پر چڑھنا -
الْوَقْلُ - مِمَّ - گول کا درخت یا اس کا پھل -
واحد - وَقْلَةُ الْمَرْأَةِ - بہت چھوٹے
سر کا آدمی -

الْوَقْلَةُ - گول کے پھل کی گھٹی - ج - دُوقُلُ -
الْوَقْلُ - پتھر - شاخوں کے ٹھنڈے جو چڑھنے
والے کو چڑھنے میں مدد دیں - (الْوَقْلُ)
وَالْوَقْلُ مِنَ الْخَبْلِ - چڑھنے والا گھوڑا -
وَقَدَّ يَقِيمُ وَقْمًا - الدَّابَّةُ - لکام پہنچ کر
جالور کو بھڑانا - الْقَدَمُ - ہانڈی کا
اُبال یا اچھان کھنڈا کرنا -

أَوْقَمْتُ وَقْمًا الْمَرْجِلَ - منسوب کرنا اور حاجت
سے بُری طرح روک دینا -
وَقَمْتُ - الْأَمْرَ مِنْ - زمین کی گھاس کا
چر لیا جانا -

تَوَقَّمْتُ - التَّجَلُّ - دھکی دینا -
تَوَقَّمْتُ - الشَّيْءَ - ارادہ کرنا -
الْوَقْمُ - شکار مارنا -
الْكَلَامُ - کلام یاد کرنا -

فَنِيْلُهُ - طول دینا -
الْوَقَامُ - کُورَا - تلوار - لاشی - رسی -
الْمَوْقُومُ - منع - غمگین - حاجت سے
روکا ہوا -
أَوْقَنْ إِيْقَانًا وَتَوَقَّنْ - جالور کا شکار



گھونسلسے کرنا۔
تَوْتَنُ الوَعْلُ فِي الْعَجَلِ -
بہاری بکرے کا بہار پر چڑھنا۔
الْوُتْنَةُ وَالْأُتْنَةُ - گھونسلا۔ ج
وُتْنَاتُ وَأُتْنَاتُ -
الْمُؤْتُونَةُ - پردہ نشین لڑکی۔
وَقْلُهُ وَدَقِيهِ بِقَهْ وَأَيْقَهْ -
وَأَتَقَهْ وَأَسْتَيْقَهْ - بھلاؤ
کسی کی اطاعت کرنا۔ اَنْقَهْ عَنْهُ
باز رہنا۔

الْمُؤْتَهَهُ - اطاعت۔ فرمانبرداری
الْوَانِيَةُ - گر جا کا ناظم۔ بعض کے
نزدیک صحیح وافیہ ہے۔
دَقْوَتٌ - الکلب کتنے کا بھونکنا
الطَّائِرُ - پرندہ کا چھپنا۔
الرحل - آدمی کا گزرد ہونا۔
الْوُتُوْقُ - وہ پرندہ جو اپنے انڈے
دوسرے پرندے کے گھونسلسے
رکھ دیتا ہے اور ان کو خود نہیں
سینا۔ الْوُتُوْقُ - بزدل۔
الْوُتُوْقَةُ - بکواسی۔ دتی یقی۔
وَنَابِيَةُ دَوْتِيَا وَوَأَيْقِيَةُ دَوْتِيَا -
دَوْتِيَا - فلاں۔ کسی کی حفاظت
کرنا۔ اذیت سے بچانا۔
دَوْتِيَا وَدَوْتِيَا الْأَمْرُ - کسی

امر کو درست کرنا۔
وَتِي يَقِي دَوْتِيَا وَدَوْتِيَا وَدَوْتِيَا -
گھورے کے کھر کا گھسنا۔
تَقِي تَقِي تَقِي وَتَقَاءُ وَتَقِيَّةٌ -
پرہیزگار ہونا۔
اَتَقِي اِتْقَاءً وَتَوْتِي تَوْتِيًا - فلاں
کسی سے بچنا۔ ڈرنا۔ خوف کرنا۔
وَتَقِي اِتْقَاءً - پرہیزگار ہونا۔
وَأَتَقِيَا بِهِ - ہم نے دشمن سے
بچنے کے لیے اس سے اڑ پکڑی۔

الْوُقَاءُ وَالْوُقَاءُ وَالْوُقَاءُ وَالْوُقَاءُ
وَالْوُقَاءُ - بچنے کا ذریعہ۔
التَّقْوَى - اللہ سے خوف اور اسی کی اطاعت
میں عمل۔
التَّقَاةُ - پرہیزگاری۔ ج تَقِي۔
التَّقِيَّةُ - ج اِتْقِيَاءُ وَتَقْوَاءُ وَالتَّقِيَّةُ
پرہیزگار۔ سراج دتی۔ سراج دتی
ذکر نے والی زمین۔ فراس واتی۔
وہ گھوڑا جو پاؤں کی تکلیف کی بنا پر
چلنے سے ڈرے۔

الْأَذْيَةُ - ج سَرْدَاقِي وَسَرْدَاقِي -
وَالْوُقِيَّةُ - ج دَوْتِي وَوَقَايَا -
رہل کا بار ہواں حصہ۔ آج کل کے
اوزان سے تقریباً ڈیڑھ اونس
کے برابر ہوتا ہے۔

الْمُؤْتِي - مفہم۔ بہادر۔
أَوَكَا أَيْكَا - کسی کے لیے نیکہ لگانا۔
أَوَكَا عَلَى الشَّيْءِ - سہارا لینا۔ ٹیک
لگانا۔

وَأَكَا مَوَاكَا وَوَكَا عَلَى يَدَيْهِ
دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھانا۔

أَيْكَا أَيْكَا - بھگانا۔
أَيْكَا أَيْكَا - عَلَى السَّيْرِ - تخت پر
سہارا لے کر بیٹھنا۔ پہلو پر سہارا لگانا۔

عَلَى عَصَا - پھرن پر سہارا لینا۔
القوم عندك - کھانا۔

تَوَكَا - عَلَى عَصَا - سہارا لینا۔ ٹیک لگانا
الْإَيْكَا - اہل غروب کی اصطلاح میں
حشو و فضول۔

الْإَيْكَا - وہ چیز جس سے سہارا لیا
جائے۔ جیسے چھری کمان وغیرہ۔
سُت سہارا لینے والا آدمی۔

الْمُتَكَا - جس سے سہارا لیں۔
ج مُتَكَاتٌ -

وَكَبَّ يَكَبُّ وَكَبَا - سیدھا کھڑا ہونا۔

عَلَى الْأَمْرِ - کسی امر پر مداومت کرنا۔
وَكَبَا وَوَكَبَا وَوَكَبَا -
آہستگی سے چلنا۔

وَكَبَّ يَكَبُّ وَكَبَا وَوَكَبَّ -
التمو - کھجور کا پک کر سیاہ ہونا۔

وَكَبَّ الشَّوْبُ - کپڑے کا میل ہونا۔
وَأَكَبَهُ مَوَاكِبَتُهُ - عَلَى الْأَمْرِ - کسی

امر پر مداومت کرنا۔
الْمُؤَكَبُ - جلوس کے ساتھ چلنا۔

أَوَكَبَّ أَيْكَابًا - جلوس کے ساتھ ساتھ
چلنا۔

أَوَكَبَّ أَيْكَابًا - جلوس کے ساتھ
رہنا۔

الطَّائِرُ - پرندہ کا اڑنے کے لیے
تیار ہونا۔ یا بیٹھنے کے لیے پر

پھڑپھڑانا۔
الغضبناک کرنا۔

الْوَالِيَةُ - جانور کی ایک ٹانگ۔
الْوَكَابُ - بہت غم گین۔

الْمُؤَكَبُ - سواروں یا پیدل چلنے والوں
کی ہامت۔

ج مَوَاكِبُ -
وَكَبَّتْ يَكَبُّ وَوَكَبَّتْ - چھوٹے چھوٹے قدموں
سے تیز چلنا۔

الدَّابَّةُ - القدرح۔ پیالہ بھرنا۔
الکتاب - کتاب میں لفظ لگانا۔

فی الشَّيْءِ - نشان لگانا۔
وَكَبَّتْ تَوَكَّبًا - القربة - مشک بھرنا۔

البُسْرُ - پکنے والی کھجور کا داغدار ہونا۔
الْوَكْتُ - تھوڑی چیز۔

الْوَكْتُ - داغ۔ تھوڑا سا نشان۔
الْوَكَاثُ - سُستی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے

قدم رکھنے والا۔
الْوَكْتُ - چھٹی۔ سازش۔

الْمُؤَكْتُ - مفہم۔ غم گین۔ رنجیدہ۔

الْمُؤَكْتُ - مفہم۔ غم گین۔ رنجیدہ۔

الْمُؤَكْتُ - مفہم۔ غم گین۔ رنجیدہ۔

وَلَعَهُ يَكْنَحُهُ وَكَعًا - برجلہ -
پاؤں سے زور سے روندنا -

أَوَّلَعَ أَيْكَاحًا - تھکنا - منع کرنا - سائل
پر سختی کرنا -

الْعَطِيَّة - کاٹنا - عین الامور - روکنا
فی الحقیقہ - کھودنے میں پتھریا سخت
جگہ تک پہنچنا -

اسْتَوَكَّحْتُ اسْتَبِيحًا - الفخاخ -
چوزہ کا موٹا ہونا - سائلہ فاستویح -
اس سے مانگا - مگر اس نے کچھ نہیں دیا -
الأوكع - پتھر - سخت - جگہ - مٹی -

الوكع - موزے چوزے - مفرد الواكع
یا الوكوح -

وَكَدَّ يَكْدُ وَكُودًا - بالمكان أقامت کرنا -
وَكَدَّ (وَكْدًا) الشئ قَصَدَ کرنا - وَكَدَّ
الامر - مشق کرنا -

رَوَّكَدَ وَآكَدَ وَآكَدَ وَآكَدَ
العهد أو السَّحَج - معاہدہ کو پکا کرنا
زین کو مضبوط باندھنا -

تَوَكَّدَ وَتَأَكَّدَ - مضبوط ہونا -
باندھا جانا -

الوكد - سعی و کوشش -
الوكاد والاکاد - ج و کاڑد - رسی یا

تسمہ جس سے دوسروں کو لٹے وقت گائے
کی ٹانگیں باندھتے ہیں -

الوكيد والأكيد - سخت مضبوط ثابت
الأوكد والأكد - زیادہ ثابت قدم -

التواكيد والتأكيد والتمسك بالأكيد -
زین کے اگلے حصہ کو باندھنے کے
تسمے -

المتوكد - کام کے لیے مستعد -
وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا وَكُورًا - الطائر -

پرنده کا اپنے گھونسلے میں آنا -
الظبي - ہرن کا گردنا -

وَكَّرَ وَكْرًا - کسی کی ناک پر ہنسا مارنا -

وَكَّرَ (وَكْرًا) (وَكْرًا) (وَكْرًا) -
برتن بھرننا -

وَكَّرَ وَاتَّكَّرَ - الطائر - پرنده کا گھونسلہ
بھرننا -

تَوَكَّرَ - الضبی - بچہ کا شکم سیر ہونا -
الطائر - پرنده کے پوٹے بھرننا -
الوكس - مہم - پرنده کا گھونسلہ - ج و آوکر -

وَأَوَّكَّرَ وَأَوَّكَّرَ - دُر کی ایک قسم - نانتہ
وَأَوَّكَّرَ - تیز رفتار اونٹنی -
الوكس - پرنده کا گھونسلہ - ج و آوکر -

وَأَوَّكَّرَ (وَأَوَّكَّرَ) (وَأَوَّكَّرَ) -
دعوت جو عمارت کے اختتام پر دی
جاتی ہے -

وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - ہٹانا - مٹا مارنا -
وَكَّرَ بِالرَّيْحِ - نیزہ مارنا -
وَكَّرَ الرِّيحَ فِي الْأَرْضِ - زمین پر
نیزہ گاڑنا -

القربة - شک بھڑنا - أَنْفَهُ - ناک
تَوَّرَّنا - وَكَّرَ نَدَّنا - دوڑنا -
تَوَكَّرَ الْأَمْرُ - کام کے لیے آمادہ ہونا -

على عصا لا تهيئ - سہارا لینا - من
الطعام - شکم سیر ہونا -

وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - الشئ - کم ہونا -
وَكَّرَ الشئ - چیز کو ٹھکانا - آوکر -

في تجارة بها تجارت میں نقد - ان اٹھانا
وَكَّرَ - الشئ - چیز کو ٹھکانا - نلانا -

بھڑکنا - ڈانٹنا -
الوكس - مہم - چاند کی وہ منزل جہاں آکر

اس کو گھنٹا ہوتا ہے - منحوس ستارہ میں
چاند کا آنا - زخم کی پیپ - لَا وَكَّرَ
وَكَّرَ شَطَطَ - نہ کم نہ زیادہ -

الأوكس - زیادہ ناقص - خفیر - کمینہ -
وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ عَلَى الْأَمْرِ
کسی امر پر مداومت کرنا - وَكَّرَ -

بھڑکنا -
وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - الشئ - کم ہونا -
وَكَّرَ الشئ - چیز کو ٹھکانا - آوکر -

في تجارة بها تجارت میں نقد - ان اٹھانا
وَكَّرَ - الشئ - چیز کو ٹھکانا - نلانا -

ہٹا کر کنارے پر کرنا - تَوَكَّرَ عَلَيْهِ
الامر - اس پر معاملہ پیچیدہ اور
مشکل ہو گیا -

وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - دُسننا - سرزنش
کرنا - وَكَّرَ أَنْفَهُ نَاكَ تَوَّرَّنا -

انشاء - دودھ پیتے وقت بکری کے
بچہ کا اپنی ماں کے صحن پر سر مارنا -
وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - پاؤں سے کچ بچنے

والا ہونا - صفت (وَكَّرَ) مَوْت وَكَّرَنا
وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - کمینہ ہونا - چیز کا سخت
ہونا - صفت (وَكَّرَ) -

وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - الرجل - کم بھدنی والا ہونا -
بے برکت ہونا - الشئ - چیز کو مضبوط
کرنا - اَلْقَدَم - قدم کا موٹا اور سخت ہونا

الامر - مضبوط و سخت ہونا - السقاء -
شک کو مضبوط کرنا -
اتَّكَعَ - الشئ - چیز کا مضبوط ہونا -

اسْتَوَكَّعَ - الرجل - مضبوط معدہ والا ہونا -
الفرخ - چوزے کا موٹا ہونا -
الوكع - سخت مضبوط - آگے چلنے والی

بکری - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا
لُكَّعَ - کمینہ آدمی -

الأوكع - کمینہ آدمی -
الوكع - سخت مضبوط - حکم - تھیلہ -

بور - الميكة - بل کا پھل -
وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا
وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا

وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا
وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا

وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا
وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا

وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا
وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا

وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا
وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا

وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا
وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا - وَكَّرَ يَكِّرُ وَكْرًا

اَوَكَّفَ الْيَكْفَا - الدمع او البیت -
پکنا - کسی کو گناہ میں ڈالنا -
اَوَكَّفَتِ الْمَرْأَةُ - عورت کا
جننے کے قریب ہونا -

وَكَّفَ وَكَّفَ وَآكَفَ - العمار -
گدھے پر پالان ڈالنا - وَكَّفَ
الْيُوكَافَ - پالان بنانا -
وَالْوَكْلَةُ مَوَاطِنَةُ الرَّجُلِ فِي الْحُبِّ
وغیرہا - مقابلہ کرنا -

تَوَكَّفَ - السَّطْحُ - چھت - پکنا -
الْبَيْتُ - گھر کی چھت - پکنا -
الْأَشْرُ - ڈھبڈھنا - لفلان - کسی
کے درپے ہو کر اس کو پالنا -
الْخَبْرُ - خبر کے ظاہر ہونے کی امید
رکھنا

تَوَكَّفَ - انحراف کرنا - منہ پھیرنا -
اسْتَوَكَّفَ - اِسْتَيْكَنَّا - الماء - پانی
پکنا - جاری کرنا -
الْوَكْلَةُ - چڑے کا بچھوٹا -
الْوَكْلَةُ - عیب - فساد - کمزوری -
بوجہ شدت - پسند - دامن کوہ
ظلم - اَوَكَات - لیس غلیک
فی هَذَا الْأَمْرِ وَكَّفَ - تمہارے
لیے - اس معاملہ میں کوئی عیب نہیں
الْيُوكَافَ وَالْإِكَافَ - عرق گیر - پالان -
ج وَكَّفَ -

الْوَكْفَ - موسلا دھار بارش - حباب
وَكُوفٌ - ہلکا ہلکا برسنے والا بادل -
وَكْلٌ يَكْلُ وَكْلًا وَوَكْلًا - الیہ الامور
کوئی کام کسی کے سپرد کرنا - سونپنا -
يَخْلِي إِلَى كَذَا - یہ کام مجھے کرنے دو -
اَوَكَّا - ایکالا - سپرد کرنا - سونپنا - بِاللَّهِ
اللہ پر بھروسہ کرنا -
وَكْلٌ تَوَكَّلًا - فلاں - وکیل بنانا - اسم
الْوَكْلَةُ وَالْوَكَالَةُ -

وَاكَلَ وَكَالًا وَمَوَاكِلَةُ - القوم - ایک
دوسرے پر بھروسہ کرنا - روکالا -

الدَّابَّةُ - جانور کا بڑا چلنا -
تَوَكَّلَ - وکالت قبول کرنا - لہ بالانجات
کامیابی کا ذمہ دار بننا - (وَاكَلَ)
عَلَى الدَّابَّةِ - بھروسہ کرنا - (وَكَاكَا)
مطیع و فرمانبردار ہونا -
أَتَيْتُ فِي أَمْرٍ فَلَا أَسْتَعِيذُ بِرَأْسِي
و بھروسہ کرنا - تَوَكَّلَ فِي الْأَمْرِ
خود مجبوری ظاہر کر کے دوسرے پر
اعتماد کرنا -

تَوَاكَل - القوم - ایک دوسرے پر بھروسہ
کرنا - تَوَاكَلُوا - کسی کو بغیر مدد کے
چھوڑنا -

الْوَكْلَةُ وَالْوَكْلَةُ وَالْمَوَاكِلُ
وہ عاجز مجبور جو اپنے کاموں کو دوسرے
کے سپرد کرے اور اس پر بھروسہ کرے
الْوَكْلُ - کندھن - جینی - بڑا - عاجز -
الْوَكْلُ وَالْيُوكَالُ - کمزوری - غنایت -
الْوَكَالَةُ وَالْيُوكَالَةُ - سپردگی - بھروسہ
ج وَكَاكَات -

الْمُكَلَّلَان - اعتماد - بھروسہ -
الْوَاكِلُ نَا - من الخيل - بغیر مارے
نہ چلنے والا گھوڑا -
الْوَكْلُ - وہ شخص جس پر بھروسہ کیا جائے
وہ جس کو عاجز آدمی اپنا کام سپرد
کردے - بہادر - ج وَكَلَا -
اللہ تعالیٰ کی صفت بن کر روزی
دینے والے کفایت کرنے والے
کے معنی دیتا ہے -

الْمُوكَلُّون - مفہم هَذَا الْأَمْرِ مُوكَلٌّ
إِلَى مَرَأِيكَ - یہ کام تمہاری رائے
کے سپرد ہے -
وَكَمَّ يَكْمُ وَكَمًا - فلاں - حاجت
حاجت سے بہت سختی سے روکنا -

الْأَمْرُ فَلَا نَأْ - غمگین کرنا -

وَكَمَّتِ الْأَرْضُ - زمین - روزی
ہوئی اور چری ہوئی گھاس والی ہونا -
وَكَمَّ يَكْمُ وَكَمًا - الرجل - الشئ -
گھمنا - غمگین ہونا -

الْوَكْلَةُ - بہت - رندوں والا پیشہ -
الْمُوكَلَّم - بہت - غمزہ -
وَكَمَّ يَكْمُ وَكَمًا وَكَمًا - الطائر
بہت - اونٹ - بیضہ - پرندہ کا
اندھے سینا - صفت - رکن - ج -
وَكَمَّ - وَاكَمَات - مونٹ -
اَكَمَت - الطائر - پرندہ کا
گھر - نسل میں جانا - (وَكَمًا) الرجل
پیر پانا - بیٹھنا -

تَوَكَّمَ - الرجل - بار میں اچھی طرح
تکیہ کرنا - مضبوط ہونا - باختیار ہونا -
الْوَاكِن - بیٹھنے والا - مونٹ - وَاكِنَت -
من الطيور - درخت - دیوار یا لکڑی
میں پرندہ کے بیٹھنے کی جگہ -
الْوَكْنُ - ج اَكِنَ وَكَنَ وَوَكَنَ
وَالْوَكْنَةُ وَالْيُوكْنَةُ وَالْوَكْنَةُ -
وَالْوَكْنَةُ - ج وَكَنَات وَوَكَنَات
وَوَكَنَات وَوَكَنَ وَالْمُوكِن -
وَالْمُوكِنَةُ - پرندہ کا گھونسلہ -
الْمُوكِنُ وہ جگہ جہاں اندھے ہوں
وَكَوَكَ - الْحَمَام - کبوتر کا کوکو کرنا -
فُلَانٌ مِنَ الْعَرَبِ - کسی کا لڑائی سے
جھگڑنا - (وَتَوَكَّكَ) الرجل
دھمکنے سے روکنا - پلٹنا -

الْوَكْوَاكُ - بڑول - چلنے میں رٹھکنے
والا -
وَكِي يَكِي وَكِيًا - القربة - مشک کو
بندھنے سے باندھنا -
وَالْمُوكَاةُ وَوَكَاةٌ - دغا میں دوڑوں
باندھنا -

وَكِي يَكِي وَكِيًا - القربة - مشک کو
بندھنے سے باندھنا -
وَالْمُوكَاةُ وَوَكَاةٌ - دغا میں دوڑوں
باندھنا -



اَوَّلِي اِيكَاءٍ - القربية وعلى ما في القربية - شك کو بندھن سے باندھنا۔
الرجل - بجل کرنا - تیز دوڑنا۔
اِسْتَوَكِي - الوعاء - برتن کا بھرنا۔
البطن - تیز ہونا۔
اِيوَكَاو - شك وغيره کا بندھن - ہر سربند برتن وغيره - ج اَوَكِيَة۔
المُكِن - مغم - بندھے ہوئے منہ کی شك وَلَبَّ يَلْبُ وُلُوْبًا - داخل ہونا اور جلدی کرنا۔ اِيْلَ الشَّيْءِ - پہنچنا۔
الْوَالِب - چیز میں داخل ہونے والی چیز اَوَالِبَة - کھیت کی روئیدگی - اولاد نسل۔
وَلَّتْ يَلَّتْ وَلَّتًا وَاذَلَّتْ - فلانا حقاً کسی کا حق کھانا۔
وَلَّتْ يَلَّتْ وَلَّتًا - فلانا بالاعصاء۔
لاھٹی سے مارنا۔ لَهْ عَهْدًا - کمزور وعدہ کرنا۔ فلان - کسی کا غلام سے کہنا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔
الْوَلْت - ہم - تھوڑے بارش - کچا عہد۔
برتن میں نیند کا بقیہ - اکٹھ دکھ آنے کا اثر۔
وَلَجَّ يَلْجُ وَلُجًا وَلِجَةً - البیت - گھر میں داخل ہونا۔ وَلَجَّ الرَّجُلُ - پیٹ کی بیماری والا ہونا۔
وَلَجَّ - المال - سائین کے وال سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں اپنا مال کسی کو دے دینا۔
اَوَّلَجْهُ اَيْلَاجًا وَاَتَلَجْهُ اِتْلَاجًا - داخل کرنا۔
تَوَلَجَّ تَوَلَجًا وَاَتَلَجَّ اِتْلَاجًا - البہ ونبہ داخل ہونا۔
اَوَّلَجَّ - ریت کا راستہ۔ اَوَّلَجَّ - اطراف و نواحی - کوچے - گھبان - شد کھانے کے چمچے - واحد - ولاج

اَوَّلَجْهُ - داخل ہونے کی جگہ - دادی کا موڑ - وہ غار جس میں راہ گیر بارش وغیرہ سے پناہ لیں - ج اَوَّلَجَّ وَوَلَجَّ - دَوَلَجَات - اَوَّلَجْهُ وَاَوَّلُوج - بہت داخل ہونا۔
وَوُلُوجُ خَرَدُوج - بہت اندر باہر آنے والا۔
اَوَّلَجْهُ - پیٹ کا درد - سانپ - درندہ۔
اَوَّلِجَّة - بھیدی - رازدار - جب کوئی اجنبی آدمی قوم کے ساتھ چٹا رہے تو اس کے لیے کہتے ہیں - هُوَ وِلَجْنَهْم - اَوَّلَاج - بہت داخل ہونے والا۔
اَوَّلَاج - دروازہ - وادی - پست زمین۔
ج وُلَجَّ وَوُلُوج - التلج - غقاب کا چوزہ۔
التلج - وحشی جانوروں کے رہنے کی جگہ۔
الموَلج - داخل ہونے کی جگہ - مَوَالج - وُلَجَّ يَلْجُ وَلُجًا - الدابة - جانور پر طاقت - زیادہ بوجھ لادنا۔
اَوَّلِجَّة - ج وُلُوج وَوُلُوج - بوری وَلَجْهُ يَلْجُ وَلُجًا - تھپڑ مارنا۔
اَوَّلَجَّ - العشب - گھاس کا دراز اور موٹی ہونا۔
اَتَلَجَّ - الامر - معاملہ کا خلط ملط ہونا۔
اِسْتَوَلَجْتَ اِسْتِيلَاجًا - الاسر - زمین کا تر ہونا۔
اَوَّلِجَّ - اسی کا کپڑا۔
اَوَّلِجَّة - جا ہوا گاڑھا دودھ - کیچڑ۔
ارض وِلَجَّة وَوِلْجَة وَاَوَّلِجَّة - پیچیدہ گھاس والی زمین۔
اَوَّلِجَّ - لمبی گھبان گھاس۔
وَلَدَتْ تِلْدًا وَلَدَةً وَوَلَدًا وَوَلَدَةً - وَاَوَّلَدَتْ وَاَوَّلَدَةً - الانثی - جننا۔

صفت وَالِدٍ وَالِدَةً - الاسر - الذبات - زمین کا نباتات اگانا۔
وَلَدَ - اَوَّلَدَ - پرورش کرنا۔ پالنا۔
الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ اِيكٍ بِيْرَسَ - دوسری چیز نکالنا۔ پیدا کرنا۔ الكلام ا - الحمد بيش - نیا پانا۔
القائمة المرأة - بچ جینا۔
اَوَّلَدَتْ اَيْلَادًا اِيْرَاةً - بچ جینے کا وقت قریب آجانا۔ الشاة جینا۔
صفت مَوْلِدٍ - مَوْلِدٍ وَاَوَّلِدَ - تَوَلَدَ الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِهِ - پیدا ہونا۔
اِسْتَوَلَدَ - المرأة - حاملہ کرنا۔ بچ طلب کرنا۔
تَوَلَدَ الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِهِ - پیدا ہونا۔
اَوَّلَدَ وَاَوَّلَدَ وَاَوَّلَدَ - بچ - رنڈ کر موت - تشنیہ جمع سب کو شامل ہے۔ کبھی جمع لا کر اولاد وولدتہ کہتے ہیں۔
اَوَّلِدَ - باپ - ج وَالِدُون - اَوَّلِدَان - باپ ماں - شاة وَالِدَ حاملہ بکری - ج وُلْدَ - اَوَّلِدَة - ماں - ج وَالِدَات - اَلِدَة - ہم عصر ہم عمر - ایک ہی وقت میں پیدا شدہ - تشنیہ - لِدَان - ج لِدَات وَاَوَّلِدَات - تصغیر ولبیدات وولیدون - اللد - پیدا شدہ کا وقت۔
اَوَّلُوْدَ - مِنَ الشاة - جننے والی بکری - بہت جننے والی - ج وُلْدَ - اَوَّلُوْدِيَّة وَاَوَّلُوْدِيَّة - بچپن یعنی طبعیت نادانی۔
اَوَّلِدَ - پیدا شدہ بچہ - غلام - ج - وَلَدَة وَاَوَّلِدَان - موت ولبیدت ج وَاَوَّلِدَ - ام الولید - مرغی - نعل ذالک فی ولیدتہ اس نے ایسا اپنے بچپن میں کیا۔



المَوْلِدُ - مہم پیدائش کی جگہ یا وقت ج مَوَالِدُ -
المِیْلَادُ - پیدائش کا وقت۔

عَبْدُ الْمِیْلَادِ - حضرت مسیح کی پیدائش کا دن
المَوْلِدُ - مہم - نیا پیدا شدہ - عربی باپ
اور عجمی ماں کا بیٹا۔

المَوْلِدَةُ - دانی -
المَوْلِدَةُ - نئی پیداشدہ چیز۔

بَيِّنَةُ مَوْلِدَةٍ - بناوٹی دلیل - کمزور دلیل -
المَوْلُودُ - مہم چھوٹا بچہ - مَوَالِیدُ -
وَلَدٌ یَلِدُ وَلَدًا - الرجل - تیز چلنا -
تیز حرکت کرنا۔

وَلَسْتُ نَسِیْتُ وَلَسَا وَوَلَسْنَا - اراہل
تیز دوڑنا - صفت (وَلَسَ) (وَلَسَا) (وَلَسْنَا)
الرجل - بھوکا رہنا - خیانت کرنا۔

الحديث - کنایہ سے بات کرنا۔
وَالسَّوْءُ السَّوْءُ - زب دینا - بد صحبت
کرنا۔ (وَأَوْسَى) بالحدیث - کنایہ
سے بات کرنا۔

تَوَالَسَ - القوم علیہ کسی کے خلاف
دھوکے اور خیانت میں ایک دوسرے
کی پشت پناہی کرنا۔

الْوَلَّاسُ - بھیڑیا۔

وَلَعَ يَلْعَ وَلَعًا - بحقہ - حق تلف کرنا۔
(وَلَعًا وَلَعَانًا) دوڑنے میں ہلکا پھلکا
ہونا - جھوٹ بولنا - کہتے ہیں مَا
ادریءَا وَآلَہُ - مجھے نہیں معلوم
اس کو کس چیز پر روک لیا۔

وَلَعَ يَزْلَعُ وَيَلْعُ وَلَعًا وَوَلَعًا وَ
أُولَعَ - ایلٹاؤ تو لے بہ - شیفتہ
ہونا - بہت محبت کرنا۔

وُلِعَ بہ - بھر کا یا جانا۔

وَلَعَ - الثور - بیل کا دھار بیدار ہونا۔
جَسَدٌ - کسی کے جسم کو سفید و اغول
والا بنانا - ہلکانا - بھرکانا۔

أُولَعَ اِيلَاعًا - فُلَانًا بَلَدًا بہت مشتاق

بنانا - جوش دلانا - اَتْلَعَ فُلَانًا دِلْعَةً
اس کا - ال مجھ سے مخفی ہے - مجھے نہیں
معلوم وہ مرگیا یا زندہ ہے۔

اَتْلَعَ - فُلَانٌ - قلبی - فلاں نے میرا دل
نکال لیا۔

الْوَلَعُ - جھوٹ۔

الْوَالِيعُ - جھوٹا - وَلَعَتُ - مَوْتُ -
والعتہ - وَلَعَ وَالِيعٌ - بڑا جھوٹ -
الْوَالِيعُ وَالْوُلُوعُ وَاللَّاعَةُ - بہت محبت
اور تعلق والا۔

الْوُلْعَةُ - لایینی بات کا شوقین یا تمسّس
الْوَالِيعُ - کجور کا پھول جو غلاف میں ہو -
واحد - وَلِيعَةٌ

المَوْلَعُ - مہم - برس وار - دھاری دار جانور
المَوْلَعُ الْقَلْبُ وَالْمُتْلَعُ الْقَلْبُ -
آشفتر دل -

وَلَعَ يَلْعُ وَيَلْعُ وَيَلْعُ وَيَلْعُ وَيَلْعُ
وَلَعًا وَوَلَعًا وَوَلَعًا وَوَلَعًا -
الکلب الاناؤ فی الاناؤ کہتے کا برتن ہیں
منہ ڈالنا - زبان سے چڑچڑ کر کے پانی پینا۔

أُولَعَ اِيلَاعًا - الکلب - کہنے کو بلانا۔

الْوَلْعَةُ - جھوٹا ڈول۔

الْمِیْلَعُ وَالْمِیْلَعَةُ - وہ برتن جس میں کتا
منہ ڈال دے یا اس میں اس کو پلایا
جائے - مِیْلَعُ -

المُسْتَوَلَعُ - من الناس عزت کی پردہ
نہ کرنے والا۔

وَلَعَ يَلْعُ وَوَلَعًا وَوَلَعًا وَوَلَعًا وَ
وَلَعًا - البزق - بھل کا تار چکنا -
(وَلِيعًا) القوم - سب کا اکٹھا آنا۔

وَالْفُؤَادُ وَوَلَعًا وَوَلَعًا - محبت کرنا۔
تَوَالَفَ مَوَالِفًا وَوَلَعًا - الشیطان -
ایک دوسرے سے الفت کرنا۔

الْوَلَفُ - دوست - صاحب -
الْوَلِيفُ وَالْوُلُوفُ - لگانا چکنے والی بجلی۔

الْوَلَفُ وَالْوَلِيفُ - مہم - ایک قسم کی دوڑ جس
میں بیکار کی ٹانگیں زمین پر پڑتی ہیں۔

وَلَقَّ يَلْقُ وَلَقًا - السَّيْفُ - تیز چلنا - ۴ -
بِالسَّيْفِ - بلے سے نیزہ مارنا - ۴ -
بِالسَّيْفِ - تلوار مارنا - الحدیث

بِالسَّيْفِ - گھڑنا - عینہ - آنکھ پر مار کر
پھوڑ دینا - فی کذب او سیرہ -
جھوٹ بولتے رہنا۔

أُولِيَ اِيلًا قَادًا لِقًا - لَقًا - پاگل ہونا۔
صفت (مَوَلُوقٌ وَمَا وَلَقَ)

الْوَلِيقَةُ - آٹے دودھ اور گھی سے تیار
کردہ کھانا۔

الْوَلِيقُ - پاگل پن۔
أُولِيَ اِيلًا مًا - ولیم کرنا - فُلَانٌ -

خلقت یا احدث عقل میں مکمل ہونا۔
الْوَلَمُ وَالْوَلَمُ - بند - گھوڑے یا اونٹ
کا تنگ۔

الْوَلَمَةُ - سب کا سب - چیز کا اجتماع۔
الْوَلَمَةُ - شادی کی خوشی کی دعوت۔

ج د ک ل م -
تَوَلَّنَ - الرجل مصیبت کے وقت بلند آوازی
سے چلنا۔

وَلَهُ يَلْعُ وَيَلْعُ وَيَلْعُ وَيَلْعُ وَيَلْعُ
وَلَعًا وَوَلَعًا - زیادتی غم سے
عقل زائل ہونے کے قریب پہنچنا۔

شَدَّتْ غَمٌ سَیْرًا ہونا - صفت (وَالِیْہُ)
وَالِیْہُ دَوْلَمَانُ مَوْتُ وَالِیْہُ -

وَالِیْقَةُ وَوَلِیْقَةُ - وَلَهُ الصَّبِيُّ
الی امہ - بچہ کا ڈکراں کی طرف
لیکنا۔ اِلْمًا اِلِی وَلِیْہَا خواہش

کرنا۔ منہ - دُرَانَا -

وَلَهُ - الرجل - زیادتی غم میں ڈالنا۔
المَوَالِقَةُ - ماں کو بچہ سے جدا کرنا (وَالِیْہُ)
غم کا کسی کو سرگشتہ و حیران کرنا۔

اَتْلَهُ - النبیذ فُلَانًا - نبیذ کا کسی کو مدہوش کرنا



اَسْتَوَلَهُ اَسْتَبْلَاَهَا۔ بدحواس ہونا۔ مَاءُ
مَوْلَهُ وَ مَوْلَهُ۔ بیان میں چھوڑا
ہوا پانی۔

المَوْلَةُ۔ مکروہی۔ المِیلَةُ۔ جبران کن
رنگینان۔ المِیلَةُ۔ سخت ہوا۔

امْرَأَةٌ مِیْلَاةٌ بچہ کی موت پر بہت غم
صدمہ کرنے والی عورت ج مَوْلِیْنِہ۔
وَتَوَلَّتْ وُلُوکَہُ وَوَلَوَکَہُ۔ المَرْأَةُ۔ عورت کا
چیننا۔ داؤد لکنا۔ کمان کا آواز کرنا۔
وَلِیٌّ وَوَلِیُّی وَ لَیًّا۔ فلاں۔ قریب و نزدیک
ہونا۔ متصل ہونا۔ بغیراصلہ کے پیچھے پیچھے
جانا۔

وَلِیُّی وَ لَیًّا وَ لَیًّا۔ اَشْیَیْ وَعَلِیْہِ
حاکم مقرر ہونا۔ متصرف ہونا۔ المِجَل
وعلیہ مدد دینا۔ المِیْلَةُ۔ شہر پر تسلط
پانا۔ (وَلَیَّا) الرجل کسی سے محبت کرنا۔
وَلِیٌّ۔ موسم بہار کی بارش سے جگہ کا سیراب ہونا۔
وَلِیُّ تَوَلَّیْتُہُ۔ فلاں الامر۔ حاکم مقرر کرنا۔
انتظام سپرد کرنا۔

وَلَاکَہُ۔ کذا کسی کے پیچھے کرنا۔ وَلَاکَہُ
ظہور۔ اپنے پیٹھ کے پیچھے کرنا۔
وَلِیٌّ اَشْیَیْ وَعِنَ اَشْیَیْ۔ اعراض کرنا۔ منہ
چھینا۔ دور ہونا۔

وَلِیٌّ ہَاہُ بَا۔ پیٹھ دے کر بھاگنا۔
اَوَلِیٌّ اِیْلَاہُ۔ فلاں الامر۔ والی مقرر کرنا۔
ع۔ معروف۔ کسی پر احسان کرنا۔

اَوَلَاکَہُ عَلِی الْیَتِیْمِ۔ یتیم کے بارے
میں وصیت کرنا۔

وَالِیٌّ وَ لَکَہُ وَ مَوَالِکَہُ۔ الرجل۔ دوستی
کرنا مدد کرنا۔ اَشْیَیْ لَکَہُ تار کرنا۔
الک الگ کرنا۔ بین الامرین۔

لے درپے کرنا۔

تَوَلَّیْتُ تَوَلَّیًّا۔ الامر کسی امر کی ذمہ داری لینا
کام کے لیے مستعد ہونا۔
فلاں۔ ولی مقرر کرنا۔ غنہ۔ اعراض کرنا۔

چھوڑ دینا۔ تَوَلَّیْتُ ہَاہُ بَا۔ پیٹھ دے
کر بھاگنا۔ اَشْیَیْ۔ لازم ہونا۔ رطب
خشک ہونے لگنا۔

تَوَلَّیْتُ تَوَلَّیًّا۔ لے درپے کرنا۔ اَسْتَوَلِی
اَسْتَبْلَاہُ۔ علیہ غلب آنا۔ قدرت
پانا۔ علی الغایت۔ انتہا کو پہنچنا۔ علی
اَشْیَیْ۔ چیز پر قبضہ پانا۔

المَوَلِی۔ قرب۔ نزدیکی۔ بارش کے بعد بارش
المَوَلَاہُ۔ محبت۔ دوستی۔ نزدیک
رشتہ داری۔ مدد۔ ملکیت۔ آزاد
کردہ غلام کے مال کی میراث۔ کہتے

ہیں جَاءُوا عَلِیَّ دَکَاہُ اَوْ عَلِیَّ
وَلَاہُ۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آئے۔

المَوَلِی۔ ج اولیۃ۔ بہار کی بارش کے
بعد دوسری بارش۔ ج اَوَلِیَّاء
محبت کرنے والا۔ دوست مددگار
پڑوسی۔ حلیف۔ تابع۔ داماد۔ کام

کا منتظم۔ اللہ وَلِیُّکَ۔ اللہ تیرا
حافظ و نگہبان ہے۔ المؤمن وَلِیٌّ

اللہ۔ مؤمن اللہ کا فرمانبردار ہے۔
وَلِیُّ الْعَہْدِ۔ تخت کا وارث۔ ولی

الیتیم۔ یتیم کا سرپرست و ولی۔
المَوَلَاۃ۔ وہ ملک جو ایک حاکم کے زیر نگیں ہو۔

ج وکایات۔
المَوَلَاۃ۔ حکومت۔ امارت۔ سلطنت۔ ایک حاکم

کا زیر نگیں علاقہ۔ المَوَلَاۃ۔ المَوَلَاۃ۔
وَلَاہُ۔ رشتہ داری۔ ہم علی ولایت

وَاحِدَہ۔ وہ سب میرے خلاف اکٹھے ہو گئے
الولیۃ۔ موت المولی۔ قرب۔ عرق گیر۔

ج ولیات و ولایا۔ دامر ولیۃ نزدیک
کا گھر۔

المَوَالِی تا والی البلد۔ شہر پر قابض اور اس پر
ج وکایات

المَوَالِی۔ زیادہ مقدار و لائق۔ تشبیہ الاولیائ
ج الاولیاء والاولیاء۔ موت۔

المَوَالِی تشبیہ المولیّان۔ ج المولی
المولیّات۔ اَوَلِی لَکَہُ۔ یہ کلمہ دھکی
کے لیے مستعمل ہے یعنی تباہی تمہارے نزدیک
ہے قریب جاؤ۔

المَوَلِی۔ مالک۔ آقا۔ غلام۔ سردار۔ آزاد کرنا والا۔
انعام دینے والا۔ وہ جس کو انعام دیا جائے محبت

کرنے والا ساتھی۔ حلیف۔ پڑوسی۔ مہمان شریک
بیٹا۔ چچا کا بیٹا۔ بھانجا۔ چچا۔ داماد۔ رشتہ دار۔ ولی

تابع۔ ج الموالی۔
المَوَالِی۔ ایک قسم کے شمار جن کو گایا کرتے تھے اور

جن کے آخر میں یا مَوَالِیٰ لکھا کرتے تھے۔ عوام
مَوَالِ کہتے ہیں۔ ج مَوَالِی۔

المَوَلِی۔ وہ بچہ جو کسی کی نگرانی میں ہو۔ ج مَوَلِیۃ۔
المَوَلِی۔ مولا کی طرف منسوب۔ زاد۔

المَوَلِیۃ۔ مولویوں کے پینے کی ٹوپی۔ شترناٹے شہیت
الموتالی۔ نا۔ شیعوں کی جماعت۔

وَمَا یَمَّا وَ مَا وَ مَا تَوَمَّیۃ وَ
اَوَمَّا اَیْمًا ہا تو یا میرا یا بروغیرہ سے اشارہ کرنا

وَمَا مَوَامَّۃ۔ کسی سے اتفاق کرنا۔
المَوَامَّۃ۔ مصیبت۔

المَوَامَّۃ۔ الیہ۔ اشارہ کردہ۔ ذکر کیا ہوا۔
المَوَمَّۃ۔ دھوپ کا اثر۔

وَمَدَّتْ تَوَمَّدَہُ۔ المیلۃ رات کا سخت
گرم اور گھٹن والی ہونا۔ صفت (وَمَدَّ وَ مَدَّہُ)

وَمَدَّہُ عَلِیہ کسی پر غضبناک ہوا۔
المَوَمَّدَہ۔ رات کی سخت گرمی۔

وَمَوَمَّیۃ وَ مَوَمَّا بَا نَفِیۃ۔ تاک کو غفہ سے
ہلانا۔ تَوَمَّیۃ۔ اٹھنے کے لیے تیار ہونا۔

وَمَسَّ یَمِیۃ وَ مَسَّا۔ اَشْیَیْ بَا اَشْیَیْ رَکُونا۔
اَوَمَسَّتِ المَرْأَةُ عورت کا بدکار ہونا اَوَمَسَّ

العنب۔ انگور کا پکنے کے لیے نرم ہونا۔
المَوَمَّسَۃ۔ سفید تیل۔

المَوَمَّسِ والمَوَمَّسَۃ۔ بدکار و فاجر عورت
ج مَوَمَّسَاتِ دَمَوَمَّسِ وَ مِیَا مِیۃ

وَمَصَّ یَمِیۃ وَ مَصَّ وَ مِیۃ وَ مَصَّ نَا۔

البوق - بجلی کا ہلکے سے چکنا۔ صفت (وا) معنی
 اَوْصَصَ الْيَمَاضَا - البوق - بجلی کا چکنا۔
 الرجل - رمز سے اشارہ کرنا۔ بجلی یا
 آگ کی چمک دیکھنا۔ مسکرانا۔ اَوْصَصْتَ
 المرأة بعينها - عورت کا دزدیدہ
 نگاہوں سے دیکھنا۔
 الوصعة - بارش کی بوجھاڑ۔ پانی کا چھینٹا۔
 الوصفه - لمبا بال۔
 وَمَقَّه بِمَقَّه مَقَّه وَمَقَّه - پیار کرنا۔
 محبت کرنا۔ وَاْمَقَّه وَمَقَّاهُ وَمَوْصَقَّه
 ایک دوسرے سے محبت کرنا۔
 تَوَّصَّقَ - الرجلان دوا دمیوں کا آپس میں محبت کرنا
 تَوَّصَّقَ - دوستی کرنا۔ الومیق -
 وَالْمَوْصُوقُ - خوب پیارا۔
 وَمِمَّه يَوْمَهُ وَمَمَّه - النهار - دن کا بہت
 گرم ہونا۔
 تَوَّصَّنَ - الرجل - بہت اولاد والا ہونا۔
 وَحَّى تَوَّصِيَّةً - باشی لے جانا۔
 اسْتَوْصَى عَلَيْهِ غَالِبَ آتَا -
 الْمَوَاصَاةَ وَالْمَوَاصَاةَ - بیابان - ج۔
 الْمَوَاصِي - الْوَتَّ - کمزوری۔
 انگلیوں سے بچانے کا چنگ۔
 وَتَّبَ - جھڑکنا۔ ڈانٹنا۔
 الْوُذْجُ - ایک قسم کا برلٹ۔ وَالْحَصَّ -
 مَوَا نَحْتَه - موافقت کرنا۔
 وَنَمَّيْنِمُ وَنَمَّا وَنِيمًا - الذَّبَابُ -
 مکھی کا بگنا۔ بیٹ کرنا۔
 الْوَنَمَّةُ وَالْوَنِيمُ - مکھی کی بیٹ۔
 وَتَّى يَنِي وَتَّى يَوْنِي وَنِيَا وَنِيَا وَنِيَا
 وَنِيَّةً وَنِيَّةً وَتَّى - ست ہونا
 کمزور ہونا۔ تھکنا۔ صفت (وا) (ان)
 مَوْنَتْ وَنِيَّةً - لا چھوڑنا عن کذا
 مہمل چھوڑ دینا۔ الْكَمَرُ اسْتَيْنِ جُرْهَانَا -
 السَّحَابَةُ - بادل کا برسا۔ لَا يَنِي يَفْعَلُ
 وہ لگتا کرتا ہے۔

وَتَّى تَوْنِيَّةً کام کرنے میں ست ہونا۔ اَوْتَى اَيْنَاءُ
 الرجل کسی کو تھکانا۔ کمزور کرنا۔
 تَوَّاتِي تَوَّاتِي فِي حَاجَتِهِ سَتِي کرنا تو تابی
 کرنا۔ لاپرواہی برتنا۔
 الْوَنَاءُ سَتِي - اِمْوَاثَا وَتَاثَا وَ اَنَاثَا وَ اَنِيَّةً
 ست حرکات والی عورت الْوَنُوثة عقل کی کمزوری
 الْوَنَاثَا وَالْوَنِيَّة - موتی۔ الْوَارِي - نا۔ کمزور بدن
 والا۔ نسیبہ وَاِن - نرم نرم چلنے والی ہوا
 الْوَوِي - موتی۔
 الْمَيْنَا وَالْمَيْنَاءُ - بندرگاہ ج مَوَانٍ وَمَوَاتِي
 مَيْنَاءُ السَّاعَةِ - گھڑی کا ڈائل۔
 وَهَبَ يَهَبُ وَهْبًا وَهْبًا وَهْبَةً الْمَالُ
 فَلَانًا وَفُلَانٍ - مال بخشنا۔ سپر کرنا۔ هَبْنِي
 (مذکر) هَبْنِي رَمُوثَ) فَعَلْتُ كَذَا
 فرض کرو میں نے ایسا کیا۔ یہ معنی صرف امر
 کے صیغہ کے ہوتے ہیں۔ هَبَا - هَبُوا
 هَبْنِ - فرض کرو۔ (وَهَبَ يَهَبُ)
 الرجل - نیامنی میں بڑھنا۔ وَاهَبَهُ مَوَاهِبَهُ
 نیامنی میں مقابلہ کرنا۔
 اَوْهَبَ اِيْمَانًا - الْأَمْرُ فُلَانٍ كَيْسِي كَيْسِي تَارِي
 اَشْيَ فُلَانٍ كَيْسِي كَيْسِي كَيْسِي كَيْسِي كَيْسِي
 اَشْيَ لَكُ زِيَادَةً وَبَحْرَتَ هَبَا -
 اَوْهَبْتُ لَكَذَا - میں نے اس پر قدرت پائی۔
 تَوَّاهَبَ - الْقَوْمُ ایک دوسرے کو سپر کرنا۔
 اَتَهَبَ اَتَهَبَا - الهبة - سپر قبول کرنا۔
 اسْتَوْهَبَ اسْتَيْهَبَا - الهبة سپر طلب کرنا۔
 فُلَانٌ وَمَنْ فُلَانٍ - سپر مانگنا۔
 الهبة - بخشش۔ عطیہ۔ ج ہبات۔
 الْوَهَابُ - الْوَهَابَةُ - الْوَهُوبُ - بہت سپر کرنا
 الْوَهْبَةُ وَالْمَوْهَبَةُ عطیہ۔ وَهَبْتُ يَهَبُ
 وَهَبْنَا اَشْيَ - دہانا۔ سختی سے روندنا۔
 اَوْهَبْتُ اللَّحْمَ گوشت کا بدلہ دے دینا۔
 الْوَهْبَةُ - پست زمین ج وَهَبْتُ
 وَهَبْتُ يَهَبُ وَهَبْنَا وَهَبْنَا - فِي اَشْيَ شُغُولٍ
 ہونا۔ اَشْيَ - سختی سے روندنا۔

تَوَهَّتْ تَوَهَّتَا - فِي الْأَمْرِ - خوب
 غور کرنا۔
 وَهَجَتْ - تَفَجَّ وَهَجًا وَهَجًا وَ
 وَهَجَاتَا - النَّارُ اَوِ الشَّمْسُ - آگ
 یا سورج کا روشن ہونا۔
 اَوْهَجَ - النَّارُ - آگ بھڑکانا۔
 تَوَهَّجَ - آگ بھڑکن۔ الْحَرُّ - گرمی
 کا تیز ہونا۔ يَوْمُنَا - دن کا سخت
 گرم ہونا۔ الْجَوْهَرُ - سپرے کا چمکنا
 رَأَيْتُهَا الطَّيْبَ - خوشبو پھیلنا۔
 اَوْهَجَ - آگ کی بھڑک۔ سورج کی چمک
 وَهَجَ الطَّيْبُ - خوشبو کی مہک۔
 الْوَهْجُ - مہم۔ جلنا۔ گرمی۔ خوشبو کی مہک۔
 الْوَهَّاجُ - تیز بھڑکنے والا۔
 وَهَدَ لَهُ الْفَرَّاشَ - فرش بچھانا۔
 تَوَهَّدَ الْفَرَّاسُ - فرش بچھنا۔
 الْوَهْدُ - پست زمین۔ ج اَوْهَدُ و
 وَهْدَانُ - الْوَهْدَاةُ - پست زمین
 گڑھا۔ ج وَهَادُ وَوَهْدُ -
 وَهَرَا يَهَرَا وَهَرَا اَوْ وَهَرَاكَ -
 ناقابلِ خلاصی مشکل میں ڈالنا۔
 تَوَهَّرَ - اللَّيْلُ وَالنَّشَاءُ رَاتٍ يَأْسُرُ
 کا اکثر حصہ گزر جانا۔
 اَوْهَرَا - فِي الْكَلَامِ گفتگو میں کسی کو حیران
 کر دینا۔
 اسْتَوْهَرَ وَاسْتَيْهَرَ اسْتَيْهَرَا اَوْ
 يَقِينُ کرنا۔
 الْوَهْرُ - سورج کی شعاعوں کا زمین پر ایسی
 تیزی سے پڑنا کہ ہوا میں بجرات کے
 مانند اضطراب نظر آئے۔
 الْوَهْرَةُ - ایسی شکل میں پھینکا کہ اس
 سے خلاص نہ ہو سکے۔
 الْوَهْرَانُ - ڈرنے والا۔
 وَهَرَا يَهَرَا وَهَرَا - روندنا۔
 ہاتھ سے مارنا یا ہٹانا۔ وَهَرَاكَ عَلَى



کذا - ترغیب دینا - وَهَنَ الشَّيْءُ -
 توڑنا - وَهَنَ كَيْ - بوجھل کرنا -
 تَوَهَّنَ - زور سے روندنا - سست چال
 چلنا - بوجھل قدموں سے چلنا -
 تَوَهَّنَ خَلْفًا - وہ اس پر پیچھے سے
 کودا -
 الْوَهْنُ - کم - پست قدر مضبوط آدمی -
 الوهانة - باجیا عورت کی چال -
 الْوَاهِنُ - اچھی چال والا - الْمُوَهَّنُ و
 الْمُوَهَّنَةُ - بہت دبا کر چلنے والا -
 وَهَسَ بِهِسَ وَهْسًا - اشیء توڑنا -
 کوٹنا - سخت روندنا - الرجل - تیز
 چلنا - فی الامر - جلد کرنا - علی قومہ
 ظلم کرنا -
 وَاهَسَ مَوَاهِسَةً - تیز چلنا - ہجڑنا -
 تَوَهَّسَ وَتَوَاهَسَ - سست چلنا تیز چلنا
 اونٹ کا اچھی پال چلنا
 الْوَهْسُ - بڑا پیچھا -
 الْوَهْسَةُ - شارع عام -
 الْوَهَاسُ - شیر -
 وَهَصَ بِهِصَ وَهْصًا - اشیء الہز - نرم
 چیز کو توڑنا - سخت روندنا - زور سے
 پھینکنا - زمین پر ٹپکنا - المراس - سر
 پھورنا - الْحَيَوَانُ - جانور کو خفی کرنا -
 الْوَهْصَةُ - پست زمین - الْوَهَاصُ - بت
 نیاخص -
 الْمُوَهِّصُ - پست زمین - ج مَوَاهِسُ
 الْمَوْهُوسُ - وَالْمَوْهَصُ الْخَلْقُ -
 مضبوط گھیل آدمی -
 الْوَهْصَةُ - پست زمین -
 وَهَطَهُ يَهْطُهُ وَهْطًا - توڑنا - روندنا
 نیزہ مارنا - مارنا -
 الرجل - کمزور و سست ہونا -
 اَوْهَطًا - کمزور کرنا - سست کرنا -
 پچھاڑنا - مصیبت میں ڈالنا - پرندہ کا

بازو توڑنا -
 تَوَهَّطَ - ٹوٹنا - روندنا - الفاش
 بچھنا - فی الطین - نرم مٹی میں غائب
 ہونا -
 الْوَهْطُ - کم - لاغری - جماعت - ج -
 اَوْهَاطُ بَيْنَهُمُ اَوْهَاطُ - ان کے
 درمیان جھگڑتے اور شور و شر ہیں -
 الْوَهْطُ - پست زمین ج وَهْطُ وَهَاطُ
 وَهَفَ يَهْفُ وَهْفًا وَهَيْفًا - الی
 کذا - قریب ہونا - النیات - سبزو
 پتے والی ہونا - لَهُ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا
 سامنے آنا - ظاہر ہونا - (وَهْفًا و
 وَهَافًا) النَّصْرَانِي - گرجا کی خدمت
 کے لیے تیار ہونا -
 اَوْهَفَ اَيْهَافًا - اشیء الی کذا قریب
 ہونا - اَوْهَفَ لَهُ الشَّيْءُ - سامنے آنا
 ظاہر ہونا -
 الْوَاهِفُ - نا - گرجے کا خادم یا منتظم -
 الْوَهَافَةُ وَالْوَهْفِيَّةُ - گرجے کا انتظام
 وَهَقَ يَهْقُ وَهْقًا - الدابة - جانور کی
 گردن میں رسی ڈالنا - عین کذا
 روکنا -
 وَاهَقَ مَوَاهِقَةً - البعير البعير اذنوں
 کا چپنے میں گردن لمبی کر کے ایک دوسرے
 سے مقابلہ کرنا -
 اَوْهَقَ - الدابة - جانور کی گردن میں
 رسی ڈالنا -
 تَوَهَّقَ - الحصى - کنکریوں کا دھوپ سے
 گرم ہونا - فَلَتًا فِي الْكَلَامِ كَفَتْنُو فِي
 کسی کو حیران کر دینا -
 تَوَاهَقَ - القوم فی الامر - مساوی طور
 پر ایک ہی کام کرنا - مقابلہ کرنا -
 تَوَاهَقَةُ الْاَدْبَلِ - چلنے میں لمبی گردن کر کے
 ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا -
 الْوَهَقُ وَالْوَهْقُ - رسی جو کہ جانور کی گردن

میں ڈال کر پکڑتے ہیں - ج اَوْهَاقُ -
 وَهَلْ يَهْلُ وَيُوَهْلُ وَهَلًا - الی اشیء -
 ایسی چیز کی طرف دھم جانا جس کا ارادہ
 نہ ہو -
 وَهْلُ يُوَهْلُ وَهَلًا - کمزور ہونا - گھبرانا -
 صفت (وَهْلٌ) فِي الْأَمْرِ وَعَنْهُ غَلِي
 کرنا - بھولنا -
 وَهَلَّةٌ - خوف زدہ کرنا - گھبرا دینا -
 تَوَهَّلَهُ - غلطی میں ڈالنا -
 اسْتَوَهَّلَ - کمزور ہونا - گھبرانا -
 الْوَهْلُ وَالْوَهْلَةُ - گھبراہٹ - خوف
 لَقَيْنَهُ اَوَّلَ وَهْلَةٍ اَوْهَلَةٍ اَوْ
 وَاهِلَةٍ - میں نے اس سے پہلے سے
 پہلے ملاؤات کی -
 وَهَمَّ بِهِمَّ وَهَمًا فِي الْحِسَابِ - حساب
 میں غلطی کرنا - بھولنا -
 وَهَمَهُ - دھم میں ڈالنا -
 اَوْهَمَ اَيْهَامًا - دھم میں پڑنا -
 دھم میں ڈالنا - فَلَتًا يَكْذِبُ -
 تہمت لگانا - بدگمانی کرنا -
 کذا اَمِنَ الْحِسَابِ - حساب کی رقم
 چھوڑ دینا - اشیء - کل چھوڑ دینا -
 اَتَهَمَهُ - بکذا - تہمت لگانا - بدگمانی
 کرنا - فی قولہ - سچائی میں شک
 کرنا - اَتَهَمَ الرَّجُلَ - متہم ہونا -
 بدنام ہونا -
 تَوَهَّمُ فِيهِ الْخَيْرُ - کسی چیز کے اندر
 خیر معلوم کرنا -
 الْوَهْمُ - دل میں گزرنے والا خطرہ -
 ج اَوْهَامُ - توت و ہمہ کو بھی دھم
 کہتے ہیں جس سے محسوسات کے
 جزئی معانی دریافت ہوتے ہیں -
 جیسے زید کی شجاعت یا سخاوت -
 کثادہ راستہ - بڑا آدمی - مضبوط
 موٹا اور سدھا ہوا اونٹ - ج -

اَوْهَامٌ وَّوُهِمٌ وَّوُهِمٌ - لاَوْهَمٌ
مِنْ كَذَا - اس سے کوئی چارہ نہیں -
الْوَهْمَةُ - موٹی اونٹنی - الْوَاهِمَةُ -
توت دہمیہ - الْوَهْمَتِي - وہمی -
التَّهْمَةُ وَالتَّهْمَةُ - تہمت - شک
الزَّامُ - ج. تَهْمَةٌ وَتَهْمَاتٌ -
التَّهْمِ - مشکوک - الْمَوْهُومُ مِنَ الْاَشْيَاءِ
وہم کیا ہوا - تصور کیا ہوا - خیال کیا
ہوا -
وَهْنٌ يَهْنُهُ وَهْنًا وَاَوْهَنُهُ -
کمزور کرنا - وَهْنٌ وَاَوْهَنَ الرَّجُلُ
آدھی رات میں داخل ہونا -
وَهْنُهُ - کمزور کرنا -
وَهْنٌ وَوَهْنٌ يَهْنُ وَوَهْنٌ يَوْهِنُ
وَهْنًا وَاَوْهِنًا وَاَوْهِنُ يَوْهِنُ
وَهْنًا - کام یا بدن میں کمزور و دست
ہونا -
تَوَهَّنَ الْبَعِيرُ - اونٹ کا لیٹنا -
الطَّاغُتُ پرنندہ کا زیادہ کھانے سے
اُڑنے پر قادر نہ ہونا -
الْوَهْنُ مِمَّنِ الرَّجَالِ اِدْرَالِ
موتا - پستہ قد - مِّنَ اللَّيْلِ - آدھی
رات یا اس کے کچھ بعد کا حصہ -
دَوِ الْوَهْنُ کام یا بدن کی کمزوری -
الْوَهْنُ - کمزور - الْوَاهِنُ - نا - کمزور
کندھے کی ایک رگ -
الْوَاهِنَةُ - موت - الْوَاهِنُ - کمزوری
بازو - گردن کا مہرہ کے زرخ کی ایک
بیماری جو بڑھاپا کے وقت بازو و
کندھے میں پیدا ہوتی ہے - سب
سے نیچے کی پسلی -
الْوَهْنَانَةُ - من النساء ناز پروردہ
ہونے کے سبب کام میں سست موت
الْمَوْهِنُ - مِّنَ اللَّيْلِ - آدھی رات
یا اس کے کچھ بعد کا حصہ -

الْمَوْهُونُ - کمزور - مَوْنٌ - مَوْهُونَةٌ
وَهْوَةٌ وَهْوَةٌ - فی مَوْنِهِ - غم یا
گھبرائش کی دیر سے بڑبڑانا -
الاسْدُ - شیر کا دھارنا - صفت -
(وَهْوَاكَ)
الْوَهْرَاكَ وَالْوَهْوَةَ مِنَ الْغَيْلِ -
چست و تیز گھوڑا - سَرَجٌ وَّهْوَاكَ
بُزْدَلِ آدھی -
دَهَى دَهَى يَهْيُ دَهْبًا - الثَّوْبُ -
کپڑے کا پھٹنا - اَشْيٌ - چیز کا وسیلے
بندھن والی ہونا - بوسیدہ کمزور
ہونا - الْحَاظُ - دیوار کا گرے
کے قریب ہونا - گرنا - الرَّجُلُ
بے وقوف ہونا - السَّحَابُ - بادل
کا موسلا دھار برسنا -
أَدَهَى - اُبھاء - نلاٹا - کمزور کرنا -
خراب کرنا -
الْوَهْيُ - رم - چیز کی دراڑ - پھٹن - ج -
وَهْيٌ وَاَوْهِيَةٌ -
الْوَهْيَةُ - پھٹن - شگاف - الْوَاهِي
نا - ج - دَهْنٌ وَاَوْهَاتٌ -
مَوْنٌ - وَاَوْهِيَةٌ -
الْوَهْيَةُ - موتی - ذبح کرنے کا موٹا جانور
الْأَوْهِيَةُ - پہاڑ کی چوٹی سے لے کر وادی
تک کا فاصلہ -
وَاِذَا وَاِذَا وَاِذَا وَاِذَا -
کلمہ تعجب - وَاِذَا لَهُ دَبْلٌ وَاِذَا
کیسی عمدہ چیز ہے - وَاِذَا عَلَى مَا
قَاتَ - افسوس اس پر جو ہاتھ سے
جاتا رہا -
وَدِي - کلمہ تعجب - جیسے وہی لذیذ
مجھے زید سے عجیب ہے - وَاِذَا
کے لیے بھی آتا ہے اور وَاِذَا
سے کنایہ کرتے ہیں - کہتے ہیں -
وَدِيكَ اسْتَمَعَ قَوْلِي - تیرا بڑا ہو

میری بات پر کان لگا - دھکی کے معنی
بھی دیتا ہے کہتے ہیں دَخَى يَدَكَ
یا فُلَانٌ -
وَدِي - یعنی وَدِي - وَدِيكَ وَوَدِيكَ لَكَ
افسوس تم پر وَدِيكَ مزید وَدِيكَ لَكَ افسوس
الْوَيْتَةُ - یا میں یا جو میں یا ایک پیانا - مصیبت -
شرمنگی - عورت -
وَدِي - رحم درس کھانے کا کلمہ کبھی مدح اور تعجب کے
موقع پر آتا ہے اور کبھی وَدِي کے معنی بھی دیتا ہے
وَدِي وَوَدِيكَ لَكَ - وَدِيكَ - زید کیسے ناخوش
ہے - دِيكَ - تجھ پر ہلاکت ہو -
الْوَاخُ وَالْوَاخَةُ - رنگین میں سبزہ زار
وَدِي - یعنی وَدِي -
الْوَيْسُ - محتاجی - چاہی ہوئی چیز - ناچاہی ہوئی
چیز - وَدِيكَ رَجُلًا وَوَدِيكَ تَجَرُّ بِهَكَ افسوس
وَدِيكَ تَوَدِيكَ - فلاں و فلاں کسی کے لیے زیادہ
بُرائی چاہنا - تَوَدِيكَ یا وَدِي لَكَ کہہ کر دنا -
تَوَدِيكَ الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے کے لیے برائی چاہنا
الْوَيْلُ - شہد برائی کا نذر - دوزخ کی ایک وادی -
کہتے ہیں وَاِذَا وَوَدِيكَ وَدِيكَ لَكَ لَذِيذٌ وَاِذَا
وَدِي لَكَ اضافت نہ ہونے کی صورت میں نصب
اشعار فعل کی بنا پر اور رفع ابتدائی وجہ سے ہوتا ہے
اولی صورت اضافت نصب ہی ہو سکتا ہے -
وَدِي وَوَدِي وَوَدِي وَوَدِي - مبت تحت مصیبت -
وَدِيكَ - کلمہ تعجب ہے اسکی اصل وَدِي لَكَ ہے یعنی
بد دعا کے پھر تعجب و تسمان کے موقع پر متعل ہونے لگا
جس طرح قائلہ اللہ اور لا اَبَ لَكَ کہتے ہیں رَجُلٌ
وَدِيكَ وَاِذَا لَكَ لَذِيذٌ لَمْ يَكُنْ لَكَ لَذِيذٌ لَمْ يَكُنْ لَكَ لَذِيذٌ
نیز غم دہی -
الْوَيْتَةُ - تہمت - جفلی - الْوَيْسُ - سیاہ انگور
عیب -
الْوَيْتَةُ - سیاہ کشش -
وَدِيكَ وَدِيكَ وَدِيكَ - ترغیب یا تشکایت
کا کلمہ مفرد جمع - مذکر - موت سب کے
لیے یکساں آتا ہے -



۴۔ تین طرح استعمال ہوتی ہے :-
 (۱) ضمیر جیسے قال لہ صَاحِبُہُ وَہُوَ
 یُحَاوِدُہُ اس کو اس نے دوست نے
 کہا جب کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا
 (۲) حرف غیبت جیسے اَیَاہُ اس کو
 (۳) امر مکتہ جیسے اَلْہٰیہَا یہاں کا ہیرو
 وہ کیا ہے وَ اَزِیۡہَا اے زید
 ہا۔ لَوْ جیسے اَلْکِتَابُ کتاب لو ضمیر
 مؤنث جیسے ضَرَبَہَا اس نے اس عورت
 کو مارا۔ کِتَابُہَا اس عورت کی کتاب
 اسم اشارہ سے پہلے تنبیہ کے لئے جیسے
 ہٰذَا، ہٰذَاکَ یہ۔ ہَا اَنْتُمْ خِرَواکُم
 یَا اَیُّہَا الرَّجُلُ۔ اے آدمی۔ ہَا اللہ
 خدا کی قسم

ہاء ج: ہاءات حرف ۵
ہی ہی: چارے کے لئے اونٹوں کو بلانے
کی آواز

ہا ہا۔ اونٹوں کو ڈرانے کی آواز
 ہا ہا ہٹھٹھاء و ہا ہا۔ بھٹی مار کر
 سینہ۔ قمعہ لگانا۔ صفت (ہا ہا کو و ہا ہا)
 بالابل، اونٹ کو چارہ کے لئے بلانا اور ہٹی
 ہٹی کی آواز نکالنا یا بکارنا اور لمبا
 کہنا۔ اسم (آہٹ)

هَوُّ لَاءِ - اولاء: جمع کے لئے اسم اشارہ
اور کھا تنبیہ کے لئے یہ
هَبَّ - خیال کرو، فرض کرو۔

هَبَّتْ (ن) هُبُوبًا وَهَبِيًّا وَهَبًا
الرَّيْحُ: ہوا کا چن ہَبَّ الرَّجُلُ مِنَ
النَّوْرِ: کسی کا نیند سے جاگنا اَلْزَجْمُ
ستارہ کا طالع ہونا۔

ہَآبَ (ض) ہَبَّ وھُبَّوْا وھَبَّیْا وھَبَّوْا
چست و تیز قدم بہرنا ہَبَّ یَفْعَلُ
کننا وہ اس کرنے کا مِّنَ آئِنِ

هَبَّتْ - تم کہاں سے آئے (ہبّا) و
 هُبُوبًا، السیف تلوار کا ہنہ فی
 الحُوب - جنگ میں شکست کھانا -
 رَهْبًا وَهَبَةً وَهْبَةً، السیف
 المشح - تلوار کا کسی چیز کو کاٹنا
 هَبَّ (س) هَبَابًا - الرجلُ - کسی کا ایک
 زمانہ تک قابِ رہنا

هَبَّ - تَهَيَّأ - التَّوْبَ كَرِهًا لِمَا نَا
أَهَبَهُ مِنْ كَوْمِهِ - مَيْدَةً جَكَتَا
أَهَبَ السَّيْفَ - تَلَرًا لَنَا - الرِّيحَ
حَوَا حِلْمَانَا -

تَهَبُ - الثوب کپڑے کا برسیدہ ہوتا
اَهْتَبَ الشَّيْءُ - چیز کو کاٹنا۔
اَسْتَهَبَ - ہوا اچلانا۔ ہوا کے چلنے کی
خواہش کرنا

الْهَبَابُ: ہوا میں اٹنے والے ذرات
الْهَبَّةُ - ہوا کا چھن، ہوا کا ایک دفعہ چھن،
سحر کا آخری گھنٹہ، زمانہ کی ایک مدت
رَائِيَتُهُ هَبَّةٌ: میں نے اس کو ایک بار
دیکھا اِحْزَرَ هَبَّةَ السَّيْفِ - تلوار
کی ضرب سے ڈر

الْهَيْبَةُ - هَيْبٌ کا اسمِ نوع۔ حال۔ کپڑے
 کا ایک ٹکڑا، تلوار کی کاٹ اور اس کا
 مہنا، سحر کا آخری گھنٹہ، زمانہ کی ایک مدت
 الْهَيْبُوبُ وَالْهَيْبُوبَةُ وَالْهَيْبُوبُ
 مِنَ الرِّيحِ - غبارہ اڑانے والی ہوا
 الْهَيَابُ - بہت گرد و غبار اڑانے والی ہوا
 الْمَهَبُ - ہوا کے چلنے کی سمت۔ ج
 مَهَابٌ -

هَيْبَتُهُ (رض) هَيْبَتًا - مارتا کسی کا سر
 جھکانا، کسی کا مرتبہ گھٹانا
 هَيْبَتُ - الرَّجُلِ - کسی کا بزدل اور بیوقوف
 ہونا، صفت (هَيْبَتٌ وَمُهَيْبُوتٌ)

الْهَيْئَةُ - ہبت کا اسم مرۃ، مرکوزی -
 الہیئتہ - ہیئتہ
 هَيْجَد (ف) هَيْجًا بالعصاة لاسٹھی سے
 لگاتار مارنا۔

هَبِجَ (س) هَبَجًا - وَجْهُ الرَّجُلِ حَرٌّ
 کا بھونا - سوچنا - صفت (ہبج)
 هَبَجَد - متروک کرنا - تھبج: متروک ہونا
 الْمُهَبَّحُ - ست، کمزور

هَبْدَ (ض) هَبْدًا وَتَهَبْدَ وَاهْتَبَدَ
الْهَبِيدُ اندرائن کے بیچ جن کرکٹا
هَبْدٌ فُكْلَانًا - اندرائن کے بیچ کھلانا
الْهَيْدُ وَالْهَبِيدُ - اندرائن یا اس
کے بیچ - واحد (هَبِيدَة)

الْهَرَابُ - اندر اس کے بیج حینے والیاں
هَبْنِ (ض) هَبْنُ اَوْ هَابْنُ وَاهْبَنُ
وَاهْتَبَنُ - الفرسی او الطائر
گھوڑے کا تیز چلنا، یا پرندہ کا تیز پرواز
کرنا


الہادیؑ - تیر رفتار اوٹنی - ج
ہوایند -

ہیدرن، ہبڑا۔ اَللّٰحْم۔ گشت کے
بڑے بڑے ٹکڑے کاٹنا۔

هَيْبَر (س) هَيْبًا - البَعِير - اونٹ کا
پرگشت ہونا -

اَهْبِر - الرَّجُلُ - خروشا مروتا ہونا
 اِهْتَبِر - الْبَعِيرُ - اونٹ کا دہلا پٹلا ہونا
 فُلَدًا بِالسَّيْفِ - کسی کو تلوار سے
 کاٹنا -


الْهَبْرُ - بغیر بڑی کے گزشت کا ٹکڑا۔ واحد
هَبْرَةٌ - الْهَبْرُ - پست ریت یا زمین
کا ٹکڑا جو هَبْرٌ وَهَبْرٌ وَالْهَبْرُ
فِي الْقَوَاةِ - آیت پر وقف کرنا
الْهَبْرُ - انگوڑا بیج کتان سے جو گرے۔



الْهَبَزُ - مِنَ الْجَمَالِ : بہت گوشت والا اونٹ ، مؤنث : هَبْرَة
 الْهَبْر - گٹا ہوا
 الْهَبْرِيَّة - روٹی کا اٹنے والا -
 رواں - پروں یا بانس اور نرکل کے ٹکڑے - سرلی بھوسی
 الْهَبُور - مگر کی الہبیر پست زمین جس کے چاروں طرف بلندی ہو -
 ج : هَبْر وَاَهْبَرَة
 الْهَبْرَة - سبج - اَبُو هَبْرَة : مینڈک اَبُو هَبْرَة - مینڈکی
 الْاَهْبَر - بہت گوشت والا - مؤنث هَبْرَاء ج هَبْر
 الْهَبَارِيَّة - بالوں کی جڑوں کی بھوسی باریک اڑنے والے پر
 الْهَبَّار - بہت بالوں والا بندر - کاسے والی تلوار
 الْهَبُور - چھوٹی چوینٹی - کھیتی کے گے ہوئے نر شے -
 هَبْر ج - الرجل : ڈگڑا کر چننا ، کپڑے کو نقش و نگار سے آراستہ کرنا -
 الْهَبْرَج - تیز چال میں نقش کپڑا - ڈگڑا کر چننا - موٹا و فریل بوطھا ، ہرن -
 الْهَبْرَج - موٹا المہبجج : خراب تانت
 الْهَبْرَزِيَّ - ہر عمدہ خوشنما چیز یا دنیا ، شیر ، عمدہ سوزہ - خالص سونا -
 هَبْرَ (رض) هَبْرًا وَهَبُورًا وَهَبْرَانَا مرنا - اچانک - مرنا -
 هَبَشَ (ن) وَهَشَ (س) هَبَشًا - الرجل پوری مٹھی سے دوہنا الشئ جمع کرنا -
 پہنچنا - لِيَعْلَمَ : بال بچوں کے لئے کہنا
 فَلَانًا وَرَدْنَاكَ ضَرْبًا - مال جمع کرنا
 هَبَشَ تَهَبَشَ - المال : مال جمع کرنا
 تَهَبَشَ - الْقَوْمُ قوم کا جمع کرنا -

الشئ : جمع کرنا
 اِهْتَبَشَ - المال : مال کا جمع ہونا الشئ : جمع کرنا - اکٹھا کرنا - مِنْهُ عَطَاءٌ : بخشش پانا
 الْمَهَابِشَة : جماعت الْمَهَابِشَة و الْمَهَابِشَة - مختلف قبیلوں کی جماعت
 ج : هَوَا لَيْثٌ وَهَبَا شَا ت الْمَهَابِشَات - کامیاں
 الْهَبَّاش - بہت کدنے والا جمع کرنے والا هَبِصَ (س) وَهَبِصَ ج هَبِصًا و هَبِصًا - پھرتیلا و حیت ہونا -
 الْكَلْبُ : بکتے کے شکار کا حلیہ ہونا -
 — عَلَى شَيْءٍ : کسی چیز کی حرص میں تیار ہونا -
 بے تاب ہونا - صفت : (هَبِصًا) اِهْتَبِصَ - فِي الْعَمَلِ : کام میں جلدی کرنا
 — فِي الْمَشْيِ : تیز چلنا (وَاِثْمَبِصًا) لِلْفَضْحِ : بہت ہنسنا
 الْمَهْبِصَى - تیز رفتاری
 هَبِطَ (ن) هَبْطًا - مِنَ الْجَبَلِ : پہاڑ سے اتارنا - الْمَرْحُومَةُ : بیاری کا گوشت
 گھلا دینا فَلَانًا کسی کو مارنا - بِلَدًا كَذَا شہر میں داخل ہونا - الْمُسَوَّقُ : بازار میں پہنچنا - الْوَادِي وَادِي میں اترنا
 صفت (هَبَّاطٌ) فَلَانًا الْبَلَدَ شہر میں داخل ہونا - ثَمَنُ السِّلْعَةِ و مَن ثَمَنَهَا قِيمَتُ كَثَانَا -
 هَبَّطَ (ن) هَبْطًا - الثَّمَنُ : قیمت کا گھٹنا - فَلَانٌ غَاكَا رِي كَرْنَا -
 فَلَانٌ مِنَ الْجَبَلِ : پہاڑ سے اترنا - مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرٍ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا - کہتے ہیں هَبَطَهُ الزَّمَانُ زمانہ کا کسی کو امیری سے غریبی میں لے آنا هَبَسَ و كُنْكَالُ كَرْدِيَا -
 هَبَّطَ - الْعَدَالُ - بوری کو اونٹ پر درست کر کے رکھنا -

أَهْبَطَ - اتارنا - أَهْبَطَ الثَّمَنَ قیمت گھٹانا -
 تَهَبَّطَ - مِنْ كَذَا نِجَہ اِترنا - الشئ : ہبنا -
 اِهْبَطَ : الرَّجُلُ : گرا - الْهَابِطُ : فاعل
 الْمَهْبُط - نقصان - شہر میں پڑنا - ذلت
 اللَّهُمَّ غِبْطًا لَاهْبُطًا : اے اللہ! الْمَهْبُطَة - هَبِطَ كَا اِمرءة - پست زمین -
 الْمَهْبُوط : دھولان زمین -
 الْمَهْبِطُ - دُوبلا - لاغر
 الْمَهْبِطُ - اترنے کی جگہ الْمَهْبُوط -
 دُوبلا تیار غریب نفس آدمی
 هَبَعَ (ن) هَبْعًا وَهَبُوعًا - الْحَبَارُ گدھے کا سست چال چلنا اور ہر ایسی حالت والا ہی هَبَعَ ہے
 الْبَعِيَّوْ اُونٹ کا گردن پھیلا کر چلنا -
 صفت (هَابِغٌ وَهَبُوعٌ - اِسْتَهْبَعَ - الْبَعِيرُ - اُونٹ کا گردن پھیلا کے چلنا
 الْهَبِغُ - گدھا ، گرمی میں پیدا ہونے والا اُونٹ کا بچہ -
 وَهْبَعٌ ، مؤنث : هَبْعَةٌ - ج هَبْعَات
 الْمُهْبِغُ - اُونٹ کے بچوں کا مالک -
 اَبِلَ هَبِغٌ : گردن لمبی کر کے چلنے والا اُونٹ
 هَبِغَ (ن) هَبُوعًا وَهَبِغًا - الرجل سونا الْمُهْبِغَةُ - نیند -
 الْمُهْبِغُ - بہت سونے والا اِنْصَبَكَ بِهَا الْأَرْضُ : زمین کا کسی کو نکل لینا - رخصت دینا -
 الْمُهْبَكَةُ - بے وقوف - وہ نرم زمین میں قدم دھنیں - ج : هَبْكَا ت



وہبٹ۔

ہبٹ (رس) ہبلا۔ فلانا امہ

مال کا اپنے فرزند کو کم کرنا۔ صفت

(دھابیل)

ہبٹ۔ الرجل لعیالہ: آدمی کا اپنے

اہل و عیال کے لئے کمانا۔ فلانا:

کسی سے ہبٹ اُمٹ کرنا۔ اَللّٰھُمَّ فلانا:

کسی پر گوشت پر تیر چڑھنا

اہبک۔ الرجل بچے سے محروم کرنا بے اولاد

کرنا۔ عقل و تیز بھونا۔

تھبٹ لعیالہ بال بچوں کے لئے کمانا۔

اھتہب فلانا بہت جھوٹ بولنا۔

حیل بازی کرنا۔ الصبک شکر کو دھوکا

دینا۔ لعیالہ اہل و عیال کے لئے

کمانا۔ اشیء کسی چیز کو غنیمت سمجھنا

۔ علی وکدہ بے اولاد ہونا۔

اھتہب ہبٹ اپنی راہ چل۔ اَلْعَابِلُ

کمانے والا۔ حیلگر۔ بہت موٹا چربی والا

الہبٹ حالت۔ الہبٹ ایک درخت

جس کی لکڑی کے تیر بناتے ہیں۔ واحد

(ہبک)

الہبالتہ فدان عقل و تیز۔ التماس

درخواست۔ طلب

الہبالة غنیمت الہبال۔ کماٹی

کرنے والا۔ حیلگر، شکاری

الہبٹ بھیر یا، فرب دینے والا۔

الہبکۃ برسہ الہبٹ ایک بت کا نام

الاہبٹ عقل و تیز و محروم جہ: ہبٹ

الہیل والہیل: بڑا یا لمبا آدمی

حیل ساز

الہبٹی نازکی چال الہبول بچہ کھڑے

والی عورت

الہبٹ جس سے ہبٹ اُمٹ کرنا

جائے۔ پر گوشت، سوچے ہوئے

چمے والا۔ پاگل۔

الہبٹ بک چکا۔ الہبٹ جھوٹا

الہبول۔ مراہو ایچہ

الہبٹ۔ احمق۔ پسند

الہبٹ۔ بے وقوف، سست، چمچور

ہبہب۔ الرجل۔ جلدی چلنا، نیند سے

باگن۔ السراب سراب کا

بھٹنا ہبہب۔ ڈانٹنا ہبہب

اَلکبش مینڈھا زبج کرنا۔

تھبہب اشیء حرکت کرنا۔ ہلنا

الہبہب۔ بک چکا بھیر یا۔ تیز رفتار

الہبہب۔ تیز رفتار، چلانے والا، سراب

الہبہب اچھی حدی گانے والا۔ اچھی خدمت

کرنے والا۔ باوچی، بکریوں کا پرانا

گوشت بھرنے والا۔ خوب محنت و مشقت

کرنے والا، ہلکا چھکا اونٹ۔

ہبیا یھو ہبو۔ آ سبتہ چلنا۔

الغبار غبار کا بلند ہونا۔ الغرس

گھوڑے کا بھاگ جانا۔ فلان: مرنا

۔ الریماد راگھ کا مٹی سے بنا

آھب آھب۔ الغرس: گھوڑے کا گرد

و غبار اڑانا۔

تھتی تھتی۔ دونوں ہاتھ جھاڑنا۔

الہابی۔ قبا جھٹی۔ ہوایں اڑنے

والا غبار بخوم تھتی غباریں پھینچنے

والے ستارے

الہابی قبر کی مٹی سراب و رماد ہاب

فضائیں اڑنے والی مٹی یا راگھ

الہبائے غبار۔ باریک مٹی کے ذرات جو

فضائیں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کم عقل

لوگ جہ: آھبائے

الہبائے۔ غبار کا قطعہ

ہبایہ۔ الشجر درخت کی چھال

الہبوة گرد و غبار۔ بگولا جہ: ہیوات

آھبائے

الہبی۔ چھوٹا بچہ مونٹ

المٹھبی۔ کرو، ورنظر والا

ھت رن، ھت۔ اَلکلام خوش بیانی سے

گفتگو کرنا۔ التوب ادا العرق

کپڑا بھاڑنا، ہتک عورت کرنا الماء

پانی گرانا۔ فلانا کسی کا مرتبہ کھانا

۔ المرأة غزلہا عورت کا سسل کاتا

۔ فلان فی کلامہ تیزی سے

برنا۔ ورق الشجر درخت کے پتے

گرانا۔ اشیء چیز کو توڑنا اور ریزہ

ریزہ کرنا۔ (ھتیتا) البکر

جوان اونٹ کا آواز کرنا

ھتبتا۔ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے

چست گیتی۔ بڑا بکرا اسی

ھتاکہ یھتاکہ ھتاکہ۔ بالعصا و

نحوھا لا ٹھی وغیرہ سے مارنا الطعام

۔ کھانا کھانا۔

ھتی یھتاکہ ھتاکہ الرجل آدمی

کا ٹیڑھا ہونا، بکر ہونا۔

تھتاکہ تھتاکہ۔ التوب: کپڑے کا

برسیدہ ہونا۔

الھت و الھت و الھتی و الھت

والھتی و الھت و الھت و الھت و الھت

الھت و الھت و الھت و الھت و الھت

الآھتاء۔ بکر، بڑا بکر۔

ھتر رن، ھت۔ ھت۔ عرض فلان ہتک

عزت کرنا۔ اکبر فلانا: بڑا چالے

کا کسی کی عقل کو خراب کر دینا۔

ھاترہ مھاترہ: بڑا چالے یا بیماری

یا غم کی وجہ سے عقل زائل ہونا، صفت:

مھتر۔

تھتر۔ الرجلان، ایک دوسرے پر

جھوٹا دعویٰ کرنا

استھتر فلان اندھا دھند خواہش پر چلنا

بڑا چالے کی وجہ سے نہ سمجھنا۔

استھتر۔ الرجل بکنا۔ فریفتہ ہونا۔

— الرَّجُلُ: بہت لغو و بیکار کام کرنا
 الْهَاتِرُ - فا - ج: کھاتروں و کھتو
 جھوٹ مصیبت - عجیب بات، ناکار
 گفتگو رات کا پہلا نصف - ج:
 اَہْتَارُ، هَتَارُ اَہْتَارُ ط اچالاک، عیار
 الْهَتْرُ: بروہا پے یا بیاری یا غم کی وجہ سے
 عقل کا زوال -
 التَّهَاتُرُ: ایک دوسرے کے خلاف شہابی
 الْكُتَارُ وَالْكُتَارُ حَمَاتٍ وَجَمَاتٍ
 الْمُهْتَرُ: کسی بات کے کئے پر فریفتہ،
 بروہا پے یا بیاری یا غم کی وجہ سے خراب
 عقل والا - گفتگو میں مدھی کرنے والا
 الْمُسْتَهْتَرُ: بالشیء: کسی شے کا بہت ہی
 دلدادہ، فریبستہ - بہت باطل و
 لغو کاموں کا مرتکب
 الْهَتْرُكُ: شیر سخت کھن زما تہ -
 هَتَشٌ (رَض) هَتَشًا - الْكَلْبُ
 کتے کو بھڑکانا -
 هَتَعَ رَفً، هَتَعًا إِلَى قَوْمِهِ
 جلد متوجہ ہونا
 هَتَفَتْ (رَض) هَتَفًا وَهَتَا وَ
 الْحَمَامَةُ: کبوتری کا کوکرنا - هَتَا فَا
 فَلَانٌ فَلَانٍ: کسی کسی کو چلا کر بلانا
 فَلَانًا وَفُلَانٍ: تعریف کرنا -
 هَتَفْتُ تَهْتِفًا: کبوتری کا نوہ کرنا
 الْهَاتِفُ فا - غیب سے آواز دینے والا
 قَوْسٌ هَتَانَةٌ وَهَتُوفٌ وَهَتَفِي
 آواز دینے والی کمان سحابیہ ہوتی
 گرجنے والا بادل دھججہ ہوتی -
 سائیں سائیں کرنے والی ہوا ام: الْهَتْفُ
 الْمَهْتَفُ وَالْمَهْتَفُ: کھت و بلند آواز
 هَتَفَ (رَض) هَتَفًا: السَّوْرُ وَنَحْوَهُ
 پردہ پھاڑنا، کھینچ کر پھاڑنا، بے عزتی
 کرنا - الثَّوْبُ: کپڑے کو لمبائی
 میں پھاڑنا - بے عزتی کرنا -

هَتَكَ اللهُ سَتَرَ الْفَاجِرِ
 اِسْتَقَالِي بَدَا كُرُوسًا اور ذیل کرے
 هَتَكَ عَرَشَهُ اس کی عزت جاتی رہی -
 تَهَتَكَ وَانْهَتَكَ - السَّوْرُ وَنَحْوَهُ
 پردہ پھٹنا تَهَتَكَ فَلَانٌ -
 ذیل و رسوا ہونا - فِي الْبَطَالَةِ وَه
 بے کار رہنا -
 الْهَتَكَ اَوْهِي رَاتٍ ثَوْبٌ هَتَكَ
 پھاڑنا کپڑا -
 الْهَتَكَ بے عزتی - رات کی ایک ساعت
 الْهَتِيكَةُ رسوائی - فَصِيحَتِ رَجُلٍ
 مِنْهَتِكَ وَمِنْهَتِكَ وَمِنْهَتِكَ
 بے شرم - بدچلن آدمی -
 هَتَكَ (رَض) هَتَا وَهَتَا وَ
 تَهَتَا وَهَتَا - السَّمَاءُ
 آسمان کا گاتا رہنا -
 سَحَابٌ هَتَلٌ گاتا رہنے والا بادل
 الْهَتَلَانُ بگی گاتا رہنا بارش
 هَتَمَ هَتَمَةً - الرِّجَالَانِ -
 پرشیدہ اور خفیہ بات کرنا
 الْهَتَمَةُ مَصْ پرشیدہ اور خفیہ بات
 هَتَمَ (رَض) هَتَمًا - فَاهَا: اگلے دانتوں کو
 توڑنا - الشَّيْءُ جڑ سے توڑنا
 هَتَمَ (رَض) هَتَمًا: اگلے دانتوں کا جڑ
 سے توڑنا -
 هَتَمَ (رَض) هَتَمًا: اگلے دانتوں کا جڑ
 سے توڑنا - صفت (هَتَمَ) مؤنث
 هَتَمًا ج هَتَمَ - هَتَمَةٌ - بِالْفَرْبِ
 مار کر زور کرنا
 اَهْتَمَ - دانت توڑنا تَهْتَمَ الشَّيْءُ
 چیز کا توڑنا تَهْتَمًا ایک دوسرے
 پر بھڑکانا دعویٰ کرنا -
 الْهَتَامَةُ: ٹوٹا ہوا ٹکڑا
 هَتَمَ الرَّجُلُ: بہت بولنا - هَتَمَلُ
 الرَّجُلُ: آہستہ بولنا -

الْهَتَمَةُ مَصْ پرشیدہ اور خفیہ بات -
 ج: هَتَامِلُ - جَنْغَلُور
 هَتَنَتْ (رَض) هَتَنًا وَهَتُونًا
 هَتَنًا وَتَهَتَنًا وَتَهَتَنًا تَدْتِ
 السَّمَاءُ آسمان سے لگاتار بارش برسنے
 السَّمْعُ آنسو پے درپے ٹپکنا -
 الْهَتْنُ بے درپے برسنے والی بارش
 سَحَابٌ كَاتِنٌ وَهَتُونٌ -
 لگاتار برسنے والا بادل ج: هَتْنٌ
 وَهَتْنٌ -
 الْهَتْنَانِ سبیل برسنے والی بارش -
 هَتَمَتِ الشَّيْءُ: چیز کو توڑنا - فِي الْكَلَامِ
 جلدی جلدی بولنا - الْبَعِيرُ: پانی پیتے
 وقت اونٹ کو بہت بہت کہہ کر ڈانٹنا -
 الْهَتَهَاتُ بکا جھکا، تیز بولنے والا -
 هَتَا كَيْ يَهْتَوَهُ هَتَا پاول سے روند کر
 توڑنا -
 هَاتَا، هَتَامَا دینا - اِتْ يَارْجُلُ اے
 آدمی دے - دَکَاتِي يَا مُرَاةً اے
 عورت دے -
 هَتَرَنَ (رَض) هَتَا جھوٹ بولنا صفت:
 (هَتَاتٌ) جھوٹا
 هَتَمَ (رَض) هَتَمًا بار پک پینا -
 الْهَتَمُ گھٹے ڈالنے کا درخت، شکر اگر
 یا عقاب کا بچہ - سرخ ریت کا میلہ
 هَتَمَتِ هَتَمَةً - الشَّيْءُ:
 چیز کا مفلط ہونا - اَوَالِي النَّاسِ: والی
 کا لوگوں پر ظلم کرنا -
 بادل کا موسلا دھار بارش برسانا -
 الشَّيْءُ: سخت روندنا
 الْهَتَهَاتُ: جلدی کرنے والا - شَيْءٌ
 هَتَهَاتٌ گڑبڑ بے ترتیب شے -
 رَجُلٌ هَتَهَاتٌ جھوٹا آدمی
 الْهَتَهَةُ: مص - مخلوط آوازیں -

مہاجرین کے مشاہیر ہونا۔
تھا جبردا و اھجیہ و آپ کا تعلق توڑنا۔
تھا جبردا المار: لینا
الھاجرۃ - نہایت عمدہ
الھاجرۃ مونث الھاجر موسم گرما میں
دوپہر کا وقت یا سورج ڈھلنے سے
عصر تک کا وقت - تیز گرمی - ج
ہاجرات دھواجر ماکہ
بالھاجرات وبالھجرات کسی کر
شرذک انحال سے متم کمرنا۔
الھاجری نہایت فائق - بہت عمدہ ہمار
شہری۔
الھجر مم - قابل حفاظت چیز کو چھوڑنا
بہت عمدہ، ہمار - دوپہر تیز گرمی۔
لفیتہ عنّھجی میں اس سے ایک
سال یا چند دن یا اس سے زائد یا غائب
رہنے کے بعد ملا ذھبت الشجرۃ
ھجی درخت نے شاخیں نکالیں
اور پھیلا۔
الھجی - عمدہ اونٹ یا اونٹنی
الھجر - نامناسب کلام - بدگوئی
الھجی - نہایت عمدہ - تمکا ہوا
الھجی اسم تفصیل زیادہ لمبا موٹا یا بڑا
الھجر آئینہ گفنگو - کنایت -
الھجۃ بہت موٹی عورت
الھجرۃ جدائی - خانہ بدوشی سے
شہرت اختیار کرنا۔
الھجۃ والھجۃ ترک وطنی۔
الھجیرۃ دوپہر - سخت گرمی - لمبا چوڑا
حوض - بڑا پیالہ - جما ہوا دودھ -
موٹا گورنر - ہمار رسی سے بندھا
ہوا اونٹ جا، ھجو - کونہ اور بھو
کے درمیان کا علاقہ
الھجیرۃ دوپہر - تیز گرمی۔
الھجار تمانہ طوق - تاج - اونٹ کے

مَا فِي الصَّرْعِ تَحْنُ كَأَسَارِ دَوْدَ
دَوْدَ لَنَا - (هَجْمًا وَهَجُومًا)
- الشئ: سكون پانا - المرض:
بیماری کا ہلکا ہونا - فُلَانٌ: خاموش
ہونا - سر جھکانا - الهَجْمَةُ: اچانک لانا
هَجْمَةً مُهَاجِمَةً نَاكِهًا لِكُلِّ دَوْرٍ سَرَّعَ
يَدَيْهَا - اچانک حملہ کرنا -
أَهْجَمَ عَلَيْهِمْ اِجْمَاعًا لَنَا -
أَهْجَمَ مَا فِي الصَّرْعِ تَحْنُ كَأَسَارِ
دَوْدَ نَكَلُ لَنَا - أَلَا يَلِي: اونٹ
کو آرام دینا - اللَّهُ الْمَوْضِعُ عَنْهُ
اللَّهُ تَعَالَى كَأَنَّهُ بِيَمَارِي كَوْدُورُنَا
تَهَاجَمًا اِجْمَاعًا اِجْمَاعًا اِجْمَاعًا
تَهَاجَمَ - عَلَى الشئ: جرات سے جا پڑنا
الهِجَمَ الْبَيْتَ: گھر کا ڈھنسا -
گَرْنَا - الدَّمْعُ وَالْعَقَقُ اَلنَّسْوُ
يَا سِينَةَ كَاهِنًا - اَهْجَمَتِ الْعَيْنُ
اَكْهَمَ كَأَنَّهُ نَسْوُ سَهَانَا -
اَهْجَمَ - مَا فِي الصَّرْعِ تَحْنُ كَأَسَارِ
سَارَا دَوْدَ دَوْدَ لَنَا
أَهْجَمَ الرَّجُلُ أَدْمَى كَأَنَّهُ زَوْرُ هُونَا -
الْهَجْمُ مَر - بِرُطَابٍ يَلِي - سِينَةُ ج:
أَهْجَامُ
الْهَجْمَةُ - اِجْمَاعًا حَمَلٌ - مِنْ
الشَّتَاءِ سَحْتٌ سَرْدِي - مِنْ
الصَّيْفِ سَحْتٌ غَرْمِي - مِنْ اَلْأَيْلِ
چالیں یا ستر سے لے کر سڑک اونٹوں
کا گله - بڑھی بھیر - رات کی ابتدائی
تاریکی -
الْهَجَامُ قَوْمٌ بِرَبِّهِمْ يَجُومُ كَرْنَةُ وَالَا -
بہادر، شیر - اَلْهَجُومُ تیز کودنے
والا - مِنْ اَلْبِيَا ح تيز ہوا پسینہ آور
الْمَهْجَمَةُ كَأَنَّهُ دَوْدَ اَلْإِهْجَامُ
الْمَهْجُومُ مَقْع - گرا ہوا اگر خیمہ جس کی ٹانگیں
کھول دی جائیں -

الْهَيْجَمَانَتَةُ - مَوْتِي - نَرْكُطِي
هَجَنَ - (ن - م) هَجْنًا - لَمْ يَنْ هُونَا
هَجَنَ (ل) هَجْنَةً وَهَجَانَةً وَهَجُونَةً
— کمینہ ہونا - دَوْدَا ہونا لوندی
زادہ ہونا - اَلْكَامُ: کلام کا غلط ہونا
هَجَنَ تَهْجِنًا - عَيْبٌ دَارِنَانَا - حَقَارَتُ
كُنَا - هَجَنَ الْأَمْرُ كَيْسِي اَمْرُكَ رَا تَبَانَا
عَيْبٌ دَارِنَانَا -
أَهْجَنَ الرَّجُلُ اِجْمَاعًا نَسْلُ كَعِ اَوْتُونِ وَالَا
ہونا - الْجَارِيَةُ: بیوخت سے
پہلے رُک کی شادی کرنا -
أَهْجَنَتِ - النِّشَاءُ - بکری کا محل ظاہر
ہونا
اِسْتَهْجَنَ - فَعْلَةً: کسی کے فعل کو قابل
نفرت جاننا - بَرُّ اِجَانَا
الْهَاجِنُ - فَا - پہلی ضرب پر آگ نہ دینے
والی حقائق - وہ بچی جس کی شادی
بورغ سے پہلے ہو جائے - وہ کھجور
کا درخت جو چھوٹا ہونے پر بھی پھل
دے - ج: هُوَ اِجَنُ -
الْهَاجِنَةُ مَوْنُثُ الْهَاجِنُ پھل دینے
والا - کھجور کا چھوٹا درخت
الْهَاجَانُ - مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هَرَمَرَمٌ وَخَالِصُ
شَيْءٍ - مِنْ اَلْأَيْلِ سَفِيدُ
نَسْلُ كَأَنَّهُ اِجَانُثُ (مَدْرُ مَوْنُثُ) جَمْعُ
سب کیساں ہیں) -
الْهَاجَانَةُ حَب - شَرَاةٌ سَفِيدِي -
الْمَهْجَنَةُ مَم - مِنْ اَلْكَامُ - نَقْصٌ رَاثِي
نقطہ کلام - تَضْيِيعُ عِلْمٍ ج: هَجْنُ
الْمَهْجِنُ كَمِينَةُ - لَيْتَمُ - دَوْدَا - جس
کی ماں باندی ہو اور باپ عرب - ج:
هَجْنٌ وَهَجْنًا وَهَجَانٌ وَهَجَانِي
وَمَهَاجِنَةٌ مَوْنُثُ هَجِينَةٍ ج:
هَجْنٌ وَهَجَانٌ وَهَجَانِي - قَدْسُ
هَجْنِي - خَرَابِ نَسْلُ كَأَنَّهُ لُورَا

وَالْمَهْجِنُ مِنَ الْخَلِ - وَهْ كَهْرَا
جَوْتَرُ كَهْرَا اِجْمَاعًا اِجْمَاعًا اِجْمَاعًا
پیدا ہو - ج: هَجْنٌ وَهْ اِجَنُ
عِلْمَةُ اَلْمَهْجِنَةِ بُلُورُ سَ پَہلے
شادی شدہ لڑکے -
الْمَهْجِنَةُ وَالْمَهْجِنِي وَالْمَهْجِنِي
وَالْمَهْجِنَةُ اِنَا كَارَهُ لُورَا -
الْمَهْجِنَةُ مِنَ الشَّوْقِ اِجْمَاعًا
نَسْلُ كَعِ سَانِدُ سَ كَا سَمْنِ اَوْتُونِ پہلی بار
کی حاملہ اوستی کھجور جس پر پہلی دفعہ
نر کا پھول ڈالا جائے -
الْمَهْجِنَةُ پہلی بار نر کے پھول ڈالی
ہوئی کھجور - لُورَا - اَلْهَجْنُفُ
لَمَّا جَوْرَا - ج: هَجَا نَيْفُ
هَجْهَجَ - الْفَعْلُ فِي هَرِيوَةٍ
اونٹ کا سخت آواز نکالنا - الرَّجُلُ
کسی کو کسی چیز سے ہٹانا - باز رکھنا -
الْجَمَلُ اَو بِالْجَمَلِ يَتَجَبَّرُ
کراونٹ کڑواٹنا اور روکنا -
الْمَهْجَمَا ج - اِجْمَاعًا سَبْتٌ شَرِيكٌ مَعْلُ
سبب بلبلانے والا اونٹ - لَمَّا اَدْمَى
اونٹ مصیبت - لُورَا - يَوْمُ
هَجْمَا ج - سَحْتٌ اَنَدْمَى وَالَادَنُ
الْمَهْجَمَا جَتَا بَنَجَرِيْن - ج:
هَجْمَا هَجْ - مَاءٌ هَجْمَا هَجْ
نہ میٹھا اور نہ کھاری پانی -
هَجْمَا هَجْمَا هَجْمَا هَجْمَا وَهَجْمَا وَهَجْمَا
تَهْجَمَا كَعِ كَعِ عَيْبٌ كُنَا بَرَاثِي بِيَانُ
کرنا - گالی دینا - ہج کرنا صفت فاعلی
(هَاجِرٌ) صفت مفعولی (مَهْجُومٌ)
(هَجْمًا وَهَجْمًا) اَلْحُرُوفُ حُرُوفُ
کی بچہ کرنا -
هَجْمَا هَجْمَا هَجْمَا - پَرْمَنَا
هَجْمَا هَجْمَا هَجْمَا هَجْمَا - اَلْيَوْمُ
دن کا سخت گرم ہونا -

هَجَجِي تَهَجِيَّة - الحُرُوف حروف
 کی بج کرنا - اللَّفْظَةُ لفظ
 کے حروف کا جوڑ کرنا - الصَّبِيَّ
 الْكِتَابَ بچہ کو کتاب پڑھانا
 هَاجَجِيَّة مَهاجَاة - ایک دوسرے
 کی بھڑکانا
 أَهَجِي أَهْجَاء - القول قول کو بھڑکانا
 تَهَجِي تَهَجِيًّا - الحُرُوف حروف کی
 بج کرنا -
 تَهَاجِيًّا تَهَاجِيًّا أَهْجِيًّا أَهْجِيًّا
 ایک دوسرے کی بھڑکانا -
 الْهَجَاءُ حُرُوف حُرُوف
 الْهَجَاءُ الْهَجَاءُ الْهَجَاءُ الْهَجَاءُ
 حُرُوف حُرُوف حُرُوف حُرُوف
 بھی کہتے ہیں - هَذَا عَلَى هَجَاءٍ
 هَذَا - یہ اس کی شکل پر ہے -
 الْهَجَاءُ يَنْدُكُ الْهَجَاءُ يَنْدُكُ
 بھڑکانے والا -
 الْأُهْجِيَّةُ وَالْأُهْجِيَّةُ هَجَوَ قَطْعَ يَ
 قصیدہ سے کی جائے ج: اَهاجِي
 هَدَّ (ن) هَدَّاهُ وَهَدَّاهُ - اِبْنَاء
 عمارت کو دھڑام سے گرا دینا -
 هَدَّاهُ الْمَصِيبَةُ مَصِيبَتِ لَئِ
 کے اعضاء کو کمزور کر دیا -
 هَدَّاهُ (ن) هَدَّاهُ - الرَّجُلُ
 آدمی کا بڑھا ہونا -
 هَدَّاهُ (ن) هَدَّاهُ - الْبَعِيدُ: اَوْنُ
 کا بلبانا (ن) هَدَّاهُ الْخَائِظُ
 دُخُوْهُ دُخُوْهُ دُخُوْهُ دُخُوْهُ
 گناہنا هَذَا رَجُلٌ هَذَا رَجُلٌ
 رَجُلٌ یہ آدمی تمہارے لئے نڈاں
 آدمی سے کافی ہے - بعض اس کو مصد
 مان کر اس کا تشبیہ جمع یا اس کو مؤنث
 وغیرہ کی شکل میں نہیں لاتے اور بعض

اس کو فعل جان کر یہ سب صورتیں اس
 میں جائز رکھتے ہیں - ذَلَّاتٌ يَهْدُ
 دہلے خوف آدمی ہے
 هَدَّاهُ وَتَهْدَاهُ - کسی کو ڈرانا
 دھمکانا -
 تَهْدَاهُ وَتَهْدَاهُ - ایک دوسرے کی پیروی
 کرنا اَتَهْدُ - ٹوٹ پڑنا، گرنا -
 اسْتَهْدَاهُ كَرِهَ وَرَسْمُهَا الْهَادَاةُ فَ:
 سمندر کا شور -
 الْهَادَاةُ كَرَج - الْهَادَاةُ مَم - نِيَاض
 آدمی سخت آواز - (ن) وَالْهَادَاةُ
 کمزور آدمی - ج: هَدَّاهُ وَهَدَّاهُ
 الْهَادَاةُ - سخت آواز
 الْهَادَاةُ - گرنے والی عمارت کا دھمکانا
 الْهَادَاةُ - نرمی - مہربانی - مہلت -
 قَوْمٌ هَدَّاهُ بَزْدَلُ لُوكْ -
 الْهَادَاةُ - بَزْدَلُ الْهَادَاةُ
 میدانی زمین مشکل گھاٹی -
 الْهَادَاةُ مَم: لَمَّا آدَمُ - دھمکانا آواز کی
 گنگناہٹ -
 الْهَادَاةُ بَے وَقْتُ - الْهَادَاةُ
 بَزْدَلُ -
 الْقَهْدَاةُ - ڈرانا - دھمکانا -
 هَدَّاهُ يَهْدَاهُ هَدَّاهُ وَهَدَّاهُ -
 ساکن ہونا - آرام کرنا - ٹھہرنا -
 هَدَّاهُ يَهْدَاهُ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ
 - فُلَانٌ - مَرَا -
 هَدَّاهُ الرَّجُلُ وَالْعَيْنُ
 بینی لوگ سو گئے -
 هَدَّاهُ يَهْدَاهُ هَدَّاهُ - کبریا ہونا -
 - الْبَعِيرُ - کثرت بوجھ کی وجہ سے
 اونٹ کے کوہان کا دبا ہوا ہونا -
 هَدَّاهُ تَهْدَاهُ تَهْدَاهُ تَهْدَاهُ
 دینا
 اَهْدَاهُ - اَهْدَاهُ بَحْرٌ كَوْتَهْ كَانَا بَحْرٌ

کا کسی کو کبڑا کر دینا - کپڑے کو پر سیدہ کرنا
 لَا اَهْدَاهُ الْاَلَمُ خَدَّاسَ كَوَا
 مصیبت میں چھوڑ دے -
 الْهَدَّاهُ وَالْهَدَّاهُ رَاتِ الْاَبْدَانِ
 حصہ - سیرت - خصیت
 الْهَدَّاهُ - هَدَّاهُ كَانِ نَزْعَ مَالِكِ
 هَدَّاهُ كَانِ كَانِ اس کے پاس ایک
 رات کا گزارہ نہیں -
 الْهَدَّاهُ - ایک قسم کی دوطرہ الْهَدَّاهُ
 دہلا گھڑا
 الْهَدَّاهُ مَم - من الليل رات کا ابتدائی
 حصہ: اَتَاَنَّا هَدَّاهُ وَهَدَّاهُ تَهْدَاهُ
 نیند کے بعد ہمارے پاس آیا -
 الْاَهْدَاءُ - کبریا (مذکر مؤنث)
 الْمَهْدَاهُ رَاتِ كَانِ اَحَدُ الْمَهْدَاهُ
 حالت
 هَدَّاهُ - دَضَّاهُ هَدَّاهُ - الشَّيْ:
 چیر کو کاٹنا - الناقه: اَوْنُ
 کر رہنا - الشَّوْ:
 پھل چھننا -
 هَدَّاهُ (ن) هَدَّاهُ - الْعَيْنُ: اَكْهَكَ
 لبی پلکوں والا ہونا - الشَّجَرَةُ
 درخت کا لبی لبی شاخوں والا ہونا -
 هَدَّاهُ - الثَّوْبُ کپڑے کا پھندنا
 بنانا - هَدَّاهُ وَاهْتَدَاهُ
 التَّمَرَةُ - پھل توڑنا -
 تَهْدَاهُ الْاَعْصَانُ - حُصَيُّونَ
 لُكَا ہوا ہونا -
 الْهَدَّاهُ وَالْهَدَّاهُ - پلک - واحد
 هَدَّاهُ وَهَدَّاهُ - کپڑے کا
 پھندنا - جھالہ جہ: اَهْدَاهُ
 واحد: هَدَّاهُ -
 الْهَدَّاهُ - ارطی یا اس جیسے درختوں کی
 ٹھنڈیاں - درخت کے ہمیشہ رہنے والے
 پتے جیسے سرو کے پتے - من النبات



وہ گھاس جس کے پتے نہ ہوں - ج :
اَهْدَابُ -

الْهَدَبُ شِرٌّ مِنَ الْعُيُونِ وَالْأَشْجَارِ
لمبی پکوں والی آنکھ - لمبی شاخوں والا
درخت -

الْهَدَبُ الْهَدَابُ كَنْدُ ذَهْنٍ عَاجِزٌ -
بے وقوف -

الْهَدَبُ ابِ سِرِّهِ كَيْتٌ - سدا بہار پتے
کپڑے کا پھندا - جھار - کند ذہن -
الْهَيْدَابُ - زمین کے قریب لٹکا ہوا بادل
الْهَيْدَابُ - مِيتَ الزَّجَالِ
کند ذہن - عاجز - بہت بالوں والا -
الْهَيْدَابُ - پستان

الْهَدَابُ - لمبی اور گھٹی پکوں والا -
مَوْتٌ هَدَبَاءُ ج : هَدَبُ
شجر الْهَدَابُ - لمبی شاخوں والا درخت
لَسَرُ الْهَدَابِ لمبے پروں والا گدھ -
أَذُنٌ هَدَبَاءُ لکھے ہوئے ڈھیلے کان -
لِحْيَةٌ هَدَبَاءُ لکھی ہوئی داڑھی -
هَدَجٌ (رض) هَدَجًا وَهَدَجًا
وَهَدَجًا بَوْرٌ هَدَجًا بَوْرٌ هَدَجًا بَوْرٌ
شمر مرغ کا کانتے ہوئے چلنا -

هَدَجَتْ - هَدَجًا وَهَدَجَةً
النَّاقَةُ اذنتی کا اپنے بچے سے پیار کرنا
- الْقَدْرُ : اذنتی کا ابلنا - الریج :
ہوا کا سائیں سائیں کرنا -

هَدَجَتْ - النَّاقَةُ اذنتی کا بلند
کون والی ہونا -

تَهَدَّجَ - الصوت - آواز لرزنا -
تَهَدَّجَتْ النَّاقَةُ اذنتی کا
اپنے بچے پر شفقت کرنا -

تَهَدَّجَ الْقَوْمُ عَلَى فَلَانٍ : مہربانیاں
ظاہر کرنا -

اسْتَهَدَّجَ - کانتے ہوئے چلنا - الھداج :
کانتے ہوئے چلنے والا -

الْهَوْدَجُ - کجادرہ - ہودہ ج : هَوَادِجُ
الْمِهْدَاجُ - بچے سے پیار کرنے والی
اونٹنی - سائیں سائیں کرنے والی ہوا -
الْمُسْتَهْدَجُ - جلد باز - الْمُسْتَهْدَجُ -
مفع - جلد بازی

الْمَهْدُجْدُ - بڑھے کی چال چلنے والا -
شمر مرغ -

هَدَرَ (رض) هَدَرًا وَهَدَرًا - الدَّمُ
وغيره خون وغیرہ کا رائیگاں جانا -
قُلُونُ الدَّمِ وغیرہ باطل کرنا -
الحمام : کبوتر کا کوکرنا - الشَّرَابُ :
شراب کا جوش میں آنا هَدَرَتِ جَرَّةُ
النَّبِيذِ نَبِيذٍ کے ٹکے میں جوش آنا -
الرَّعْدُ : بادل گرجنا - التَّغْلُ : بھجور
کا شکوفہ لگانا - هَدَرًا وَهَدِيرًا
الْبَعِيرَاتُ کا بلیانا - هَدُورًا
وَهْدِيرًا : الغشِبُ : گھاس کا بہت
لمبا ہونا -

هَدَرَ - البعير - اونٹ کا بڑبڑانا -
أَهْدَرَ - دم فلان سے خون کو مباح کرنا
تَهَادَرَ الْقَوْمُ ایک دوسرے کے خون کو مباح
کرنا -

أَهْدُوْدَةً - الْمَهْدُ - زور سے بارش برسنا
الْمَهَادِرُ - فائز - کبیر - ناکارہ - ج :
هَدَرَةٌ - دہ دودھ جس کا اوپر کا حصہ
گاڑھا ہوا اور نیچے کا حصہ پتہا

الْمَهَادِرَةُ مَوْتُ الْمَهَادِرِ بہت گھاس
والی زمین الھدآر بہت کرختی والا
بادل -

الْهَدَرُ وَالْهَدَرُ - ناکارہ - رائگاں کتنے
میں ذھب دَمَ هَدَرًا اَوْ هَدَرًا
اس کا خون رائیگاں گیا ذھب سَبِيحُ
هَدَرًا اَوْ هَدَرًا اس کی کشش یکسا
گئی الھدَر بے خبر ناکارہ لوگ -
الْهَدْرُ سُت - نکمٹا - ج : هَدَرَةٌ -

الْأَهْدَرُ - بھولا ہوا مَوْتُ هَدَرًا ج : هَدَرُ
الْمَهْدَرَةُ - آگے کے چھوٹے دانت -
الْهَدَارِيسُ - مصیبتیں -

هَدَشَ - هَدَشًا الْكَلْبُ : کتے کا بھڑکایا جانا
اَنْهَدَشَ - اَنْهَدَشًا - کتے کا بھڑکنا
هَدَنَكَ دَنَ : هَدَنًا تَوَطَّنَا -

اِنْهَدَغَ - لَوْنًا - الشیءُ خَشک ہونے
کے بعد نرم ہونا - الرُّطْبَةُ : گرگھٹنا
هَدَفَ (رض) هَدَفًا - الیہ : داخل ہونا -
لِلْخَمْسِيْنَ پیاس کے قریب پہنچنا
- عَلَى التَّلِ : ٹیلہ پر سے جھانکنا -
الیر : پناہ لینا - مَرْنُ : قریب ہونا -
اسْتَهْدَفَ - لَر الشیءُ : ملید ہونا : نشانہ بننا
کہتے ہیں : مَنْ صَنَّفَ فَقَدْ اسْتَهْدَفَ
جس نے کوئی تصنیف کی وہ نشانہ بنا
اسْتَهْدَفَ كَفَلَ الْحَيَوَانِ اَوْ
الشَّانِ جانور یا انسان کے چوڑ کا موٹا
ہونا -

الْمَهَادِفُ مسافر - الْمَهَادِفَةُ جماعت : گروہ
الْمَهَادِفُ - جیم - الْمَهَادِفُ ہر ایک بلند اور
نمایاں چیز - اس لئے نشانہ کو بھی هَدَفَ
کہتے ہیں - بڑے جسم کا آدمی - بوجھل بہت
سونے والا آدمی - ناکارہ آدمی - ج :
أَهْدَافٌ - الْمَهْدَفَةُ - لوگوں
کی جماعت - دہ مکانات جن میں لوگ کچرین
کے لئے ٹھہریں اور پھر کوچ کر جائیں -

ج : هَدِيفٌ
هَدَاكُ (رض) هَدَاكَ - الْبِنَاءُ :
عمارت کو ڈھانا

تَهَدَّكَ تَهَدَّكَ بے وقوف بننا - تَكْنِيَةٌ
بِالْكَلَامِ : دھمکانا -

هَدَلُ (رض) هَدَلًا - الْحَمَامُ اَوْ الْغَلَامُ :
کبوتر یا رگھ کے کا آواز نکالنا -
(- هَدَلًا) الشیءُ : چیز کو ٹکانا
هَدَلَ (رض) هَدَلًا - ڈھیلہ ہونا -

الْبَيْعَةُ: اونٹ کا زخم سے ڈھیلے ہونٹ والا ہونا۔

تَهْدَلْتُ الشَّجَرَةَ: ہونٹ کا ڈھیلہ ہونا۔
أَعْضَانُ الشَّجَرِ أَوْ شَرَّتْهَا: درخت کی ٹہنیوں یا پھل کا لگنا۔
تَهْدَلُ الثَّوْبُ: کپڑے کا لگنا۔
الْهَادِلُ فَا: بَعِيدُ هَادِلٌ لِبَسِ ہونٹ والا اونٹ۔

الهدال: لٹکی ہوئی شاخیں۔ الهدالة: جماعت۔

الهدیل: مہم۔ کبوتر کی آواز۔ کبوتر کا بچہ۔ بہت بالوں والا آدمی۔
وَجَلَّ هَدِيلٌ: بہت دبوچل آدمی۔

الَاهْدَلُ: لٹکے ہوئے ہونٹ والا ہونٹ۔
هَدَلَاءُ ج: هُدُلٌ - مشفرہ

أَهْدَلُ دُھیلہ ہونٹ شَفَّهٌ هَدَلَاءُ دُھوڑی پر ٹوٹا ہوا ہونٹ الَاهْدَلُ من السحاب زمین کے قریب تک لٹکا ہوا بال

هَدَمَ رَضَى هَدَمًا - البناء عمارت ڈھانا۔ الثوب: کپڑے میں پیوند لگانا۔

هَدِمَ - الرَّجُلُ فِي الْبَحْرِ: سمندر میں چکر آنا۔
هَدَمَ - البناء - معنی: الثوب۔

تَهْدَمُ - البناء: عمارت کا دھیرے دھیرے گرنا۔
تَهْدَمُ مَعْ غَضَبًا عَلَيْهِ: دھمکی دینا۔

تَهْدَمُ مَاءً: ایک دوسرے کے خون کو مباح کرنا۔
إِهْدَمَ - البناء: عمارت کا ٹوٹنا۔

الهادِمُ فَا: هَازِمُ اللَّزَاتِ - موت الہدام۔ سرکا چکر جو سمندر میں آتا ہے۔

الهدم: مہم۔ بے بدلہ چھوڑا ہوا خون الہدم۔ برسیہ یا پیوند لگایا ہوا کپڑا ج: آهَدَام و هَدَم

الهدم پیر فرقت۔ پُرانا موزہ۔

الهدم بے وقوف۔ محنت۔

الهدم مباح کیا ہوا خون۔ وہ کنواں

جس کے کنارے ٹوٹ ٹوٹ کر اس میں گر گئے ہوں۔ ہر ٹوٹ کر گرنے والی

عمارت کہتے ہیں: إِنَّ حَضْرَتَكَ إِلَى لِهْدَمٍ وَإِنَّ حَبْلَكَ إِلَى لَا تَنْشُطُهُ

یہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ کسی سے کہنا ہو کہ تمہاری مدد بہت کم ہے۔ عرب لوگ

معادہ کے وقت بولتے ہیں دَمِي دَمُكَ وھدمی ہدم مٹ۔ یعنی اگر کسی نے

مجھے قتل کیا تو تم میرے خون کا بدلہ طلب کرو گے اور اگر میری عزت پامال

کی گئی تو سمجھو کہ تمہاری عزت پر حرف آیا شہید الہدم۔ کنوئیں میں

گر کر مرنے والا یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا۔

الهدمة: مٹی یا بارش۔ ریڑ کا ایک حصہ الہمة۔ بوسیدہ کپڑا۔ ج: هُدُوم

الہدیہ۔ پہلے سال کے پردوں کا بقیہ۔ عَجُوزٌ مَتَّحَةٌ مَتَّ - بہت بوڑھی

فروقت عورت۔
الْمُهْدَمُ وَالْمُهْدُومُ وَالْمُهْدُومَةُ

جمہور اور وہ۔
هَدَمَ الرَّجُلُ كِطْرًا: بھاڑنا۔

الهدمل پُرانا کپڑا۔ پُرانا دیرینہ بہت بالوں والا۔

الهدمل پُرانا کپڑا۔ بلند ٹیلا۔
الهدم مٹ۔ رگبتانی زمین جس میں بہت

درخت ہوں۔ پُرانا زمانہ لوگوں کی جماعت۔

هَدَنَ رَضَى هَدُونًا آرام پانا بزدل ہونا۔ ڈھیلہ ہونا (هَدُنًا)

الرَّجُلُ: جھوٹے وعدے سے تسلی دینا۔ الصبی: بچہ کو خوش کرنا۔ الشی: دفن کرنا۔ فلاناً: قتل کرنا۔

هَدَنَ - عَنَدَكَ حِلَالٌ كَيْسِي كَا تَهْطُورِي حیز یا رقم سے راضی ہو جانا۔

هَدَنَهُ - تَسْكِينٌ دِنَا - تسلی دینا۔ باز رکھنا۔
- الصبی: بچہ کو راضی کرنا۔

أَهْدَنَ - انخيل: گھوڑے کو دبل کرنا۔
هَادَنَهُ مَهَادَنَةً - صلح کرنا۔

تَهَادَنَ الْأَمْرُ - کسی امر کا درست ہونا۔
- القوم: باہم صلح کرنا۔

إِهْدَنَ - الرَّجُلُ عَنَ عَزْمِهِ اپنے ارادہ میں سست ہونا۔

الهدان احق۔ اکھوٹ۔ جنگ میں سست ج:

الهدانة جنگ کے بعد صلح۔
الهدان سرسبز۔ فراخی۔

الهدن: ڈھیلہ۔ الهدنة مٹی بارش۔
الهدنة مصالحت۔ آرام و سکون۔ ج:

هدن الهدون سکون۔ صلح

المهدون - منع۔ بہت سونے والا جو نہ نماز پڑھے اور نہ صبح کی

حاجت کو جائے۔ وہ کند ذہن جو صرف باتوں سے خوش ہو جائے۔

المهدنة سکون۔ آرام۔
هَدَدَ - هَدَدَةً: البعير:

اونٹ کا بڑ بڑانا۔ الطائر: پرندہ کا غرغور غرغور کرنا۔ هَدَدَتِ

الصبي امه - ماں کا بچہ کو سلانے کے لئے اس کو بلانا۔ يَهْدُ هَدًا إِلَى

مجھے خیال آتا تھا۔
الهدد جھون کی آوازیں۔

الهدد والهدد والهدد والهدد الهدد الهدد - واحد هَدَدَةٌ و هَدَدَةٌ

دَهْدَاهِدَةٌ ج: هَدَاهِدٌ و هَدَاهِيْدٌ - کہتے ہیں هُوَ أَبْصَرُ من هَدٌ کیونکہ عرب کا خیال ہے

کو یہ زمین کے نیچے کے پانی کو دیکھ لیتا ہے
الْهَدَى هَدَمَ بَرَكُو كُورْنِے والا پرندہ بہت
کو کو کرنے والا کبوتر۔ جہ:
هَذَا هَدَى وَ هَذَا اِهْيَدَ -
الْهَدَى هَدَا مَم كُورْنِے کو کو کی آواز
الْهَدَى اِهْدَى - نرمی -
هَذَا اَلْهَدَى يَهْدِيهِ هُدًى وَ هَدًى يَأُو
هَذِيَّةٌ وَ هَذِيَّةٌ -
رہنمائی کرنا - هَذَا اَلْطَّرِيقِ
و هَذَا اِلَى الطَّرِيقِ وَ لَطِيفٌ
راہ بتانا اور پہنچانا - راہ سے آگاہ
کرنا - هَدَى الرَّجُلُ اَدًى كَالْيَدِ
ہدی ہدی ہدای ہدای - العروس
الى اَيْلِهَا دھن کو شوہر کے پاس بھیجنا
— فَلَانَا آگے بڑھنا -
هَدَى تَهْدِيَّةً الشَّيْءُ جِدًّا كَرْنَا
— الْهَدِيَّةُ لِفُلَانٍ اِلَيْهِ تَخَفِ دَنَا
— الْعَرُوسُ اِلَى اَيْلِهَا - دھن کو شوہر
کے پاس بھیجنا -
هَادَاةٌ مَّهَادَاةٌ وَ هَادَاةٌ اَلْبَدَاةُ
کو تحفہ بھیجنا - هَادَى فُلَانٌ فُلَانًا
اپنا اپنا کھانا لاکر مل بیٹھ کر کھانا -
فُلَانًا جَلَانَا - جَاءَ فُلَانٌ يَهْدِي
بَيْنَ اَنْتَيْنِ فُلَانٌ دَوَامِيوں کے درمیان
سہارا لیتا ہوا آیا -
اَهْدَى اَهْدَاةً الْعَرُوسُ اِلَى
بَعْلِهَا - دھن کو شوہر کے پاس بھیجنا -
— الْهَدَى اِلَى الْحَرَمِ بَدَى كَا
جائزہ حرم بھیجنا - لِفُلَانٍ وَ اِلَى
فُلَانٍ كَذَا اَنْظِمَ كَمَا لَمْ يَخْفَ يَخْفَا
— الشَّيْءُ جَزِيرٌ كَبِيرٌ نَا -
تَهْدَى تَهْدِيًا - ہدایت پانا -
تَهَادَى - تَهَادًى الْقَوْمُ اَبَدًا
کو بدیدہ بھیجنا - الرَّجُلُ كَمَا كُورْنِے
بہرے چنا -

اَهْتَدَى اِهْتِدَاةً - ہدایت پانا
اَهْتَدَى الرَّجُلُ - کسی کو ہدایت
طلب کرنا - ہدایت پر قائم رہنا -
اَسْتَهْدَى اَسْتَهْدَاةً اَهْدَى اَهْدَاةً
کرنا - الشَّيْءُ كَبِيرٌ كَبِيرٌ كَبِيرٌ
کرنا -
الْهَادَى - اسم فاعل جہ: هَادُونَ وَ
هَادَاةٌ - الْهَادَى آگے رہنے والا
گردن - نیرے یا تیر کا پھل - لاطھی -
شیر - جہ: الْهَادَى - هَادَى اَلْبَلِ
رات کا آغاز هَادَى اِلَى اِلَى
آگے آگے چلنے والا اونٹ -
الْهَادِيَّةُ مَوْثِقٌ الْهَادِي لاطھی -
پانی میں ابھری ہوئی چٹان - گردن -
جہ: هَادِيَاتٌ وَ هَادَاةٌ اِلَى رَجُلٍ
هَادَاةً كُورْنِے - کندھن
الْهَدَايَةُ مَم - رہنمائی - الْهَدَى
رہنمائی - بیان - دلالت - دن
الْهَدَى صَاحِبُ عَرَفَتِ - قربانی جو کہ شریف
بھیجی جائے - واحد هَدِيَّةٌ
الْهَدِيَّةُ وَالْهَدِيَّةُ طَرِيقَةٌ سِيرَتٌ -
جہ: هَدَى
الْهَدِيَّةُ بَدَى كَا اسم نوع حُدُثِي
هَدِيَّةٌ اِنْفِثَ اِنْفِثَ اِنْفِثَ اِنْفِثَ
هَدِيَّةٌ اَلَامَرِ طَرِيقٌ كَارِ الْهَدَى
ہدی - رہنمائی - الْهَدَى قَبْدَى -
دھن - حرم کی طرف بھیجا جانے والا -
قربانی کا جائزہ - قَابِلُ احْتِرَامِ اَدَى
الْحَمَامُ الْهَدَى خَطُوطٌ لَانِي بَعَاةً
والے کبوتر - ڈاک کے کبوتر -
الْهَدِيَّةُ مَوْثِقٌ الْهَدَى دھن
تحفہ - جہ: هَدَايَا وَ هَدَاوَى
و هَدَاةً
الْهَدَايَا مَثَلٌ - الْمَهَادَاةُ صِلَحٌ كَرْنَا -
الْمَهْدَاةُ بَدِيدٌ يَخْفَى كَا نَادَى -

الْمَهْدَى وَ بَرْتَنِ جَسْمِ بَدِيدٌ يَخْفَى
مَثَلًا: تَقَالِي - طَبَقٌ وَ غَيْرُهُ -
الْمَهْدَى مَقَرٌ - ہدایت یافتہ - وہ شخص جس
کو اللہ تعالیٰ حق کی طرف رہنمائی کرے
الْمَهْدَاةُ وَالْمَهْدِيَّةُ - دھن کو شوہر
کے پاس بھیجی گئی ہو -
هَذَا رَنَ هَذَا اَوْ هَذَا اَدَا وَ
هَذَا اَدَا اَلْمَهْدَى اَدَا اَدَا
الحديث: بیان کرنا -
اَهْتَدَتْ - الشَّيْءُ مِمَّنْ جَزِيرٌ كَبِيرٌ
کام - هَذَا اَذِيَّتٌ جب کسی کو
کسی کام سے روکیں تو یہ حکم برتتے ہیں
الْمَهْدَى - بہت کاٹنے والا -
الْمَهْدَى اَدَا اَلْمَهْدَى وَ اَدَا اَدَا
جَمَلٌ هَذَا اَدَا اَدَا اَدَا
اونٹ -
هَذَا اَلْمَهْدَى اَدَا اَدَا اَدَا
هَذَا اَلْمَهْدَى وَ اَدَا اَدَا
— فَلَانَا بَلَسَانِ - زبان سے ایذا دینا
نا پسند باتیں سننا - اَلْكَلَامُ -
لغزباتیں کرنا - هَذَانِ اِلَى
اونٹوں کا نکان سے گر پڑنا -
هَذِيَّةٌ بَهْدَى اَدَا اَدَا اَدَا
سردی سے ہلاک ہونا -
تَهْدَاتٍ - الْقَرْحَةُ زَخْمٌ كَا خَرَابٌ بَرَكُو
بھٹ جانا هَذَا اَدَا وَ هَذَا اَدَا
کاٹنے والی تلوار الْهَدَاةُ كَدَالٌ
بھاوڑہ -
هَذَا اَدَا - اسم اشارہ اور اُلئے تنبیہ سے
مرکب کلمہ - مَعْنَى يَرُ -
هَذَابٌ (رَضَ) هَذَابًا - الشَّيْءُ دَعَايُهُ
درخت وغیرہ کی شاخ تراشی کرنا -
صاف کرنا - درست کرنا -
النَّخْلَةُ كَبِيرٌ كَبِيرٌ كَبِيرٌ
اتارنا - الشَّيْءُ بَنَارٌ هَذَا اَدَا اَدَا



جلدی کرنا — القوم: قوم کا بہت
شور مچانا۔

هَذَابٌ جلدی کرنا الشَّجَرُ بمعنی
هَذَابٌ — الشَّجَرُ: شجرہ اصل
کرنا — الرَّجُلُ: پاکیزہ اخلاق والا
بنانا۔

هَذَا ذَبٌّ جلدی کرنا
اَهْذَابٌ جلدی کرنا
تَهَذَّبَ شائستہ اخلاق ہونا۔ پاکیزہ
اور درست ہونا۔

الِهَذَابُ صغائی: خصوص: فَرَسٌ
هَذَابٌ تیز رو گھوڑا۔ اَبْلٌ
مَهَذَّبٌ تیز روانہ۔
المُهَذَّبُ مفعول: پاکیزہ اخلاق والا۔

عیبوں سے پاک وصاف
هَذَا رَدٌّ (من) هَذَا رَدٌّ تَهْذِئًا
الرَّجُلُ فِي كَلَامِهِ: کہو اس کرنا۔
(— هَذَا رَدٌّ) الیوم: دن کا سخت
گرم ہونا۔

هَذَا رَدٌّ (من) هَذَا رَدٌّ کَلَامٌ: کلام
کا ہیروہ ہونا۔ باطل ہونا۔

الِهَذَا رَدٌّ: کہو اس۔ بے ہودہ
گفتگو۔ رَجُلٌ هَذَا رَدٌّ وَهَذَا رَدٌّ
هَذَا رَدٌّ وَهَذَا رَدٌّ وَهَذَا رَدٌّ
وَهَذَا رَدٌّ وَهَذَا رَدٌّ وَهَذَا رَدٌّ
وَهَذَا رَدٌّ وَهَذَا رَدٌّ وَهَذَا رَدٌّ
نہو اس کرنے والا۔ بے ہودہ گفتگو
کرنے والا۔

هَذَا رَدٌّ وَهَذَا رَدٌّ وَهَذَا رَدٌّ
بہو اس بکنے والی۔

هَذَا رَدٌّ تیزی سے گفتگو کرنے والا۔
الِهَذَا رَدٌّ جلدی بولنے والا جیت
الِهَذَا رَدٌّ عادت۔ رسم

الِهَذَا رَدٌّ عادت
هَذَا رَدٌّ جلدی کرنا هَذَا رَدٌّ تیز رفتار

ج: هَذَا رَدٌّ

هَذَا رَدٌّ رَدِّیَّةً زیادہ بولنا۔ جلدی
پڑھنا یا بولنا — الرَّجُلُ فِي كَلَامِهِ
کلام میں گڑبڑی کرنا۔

الِهَذَا رَدٌّ مفعول: تیز رفتاری۔
الِهَذَا رَدٌّ مفعول: تیز رفتاری۔

الِهَذَا رَدٌّ مفعول: تیز رفتاری۔
الِهَذَا رَدٌّ مفعول: تیز رفتاری۔
الِهَذَا رَدٌّ مفعول: تیز رفتاری۔

هَذَا رَدٌّ (من) هَذَا رَدٌّ جلدی کرنا
جیت ہونا رَجُلٌ هَذَا رَدٌّ وَ
هَذَا رَدٌّ جلدی کرنے والا جیت

هَذَا رَدٌّ (من) هَذَا رَدٌّ تیز چلنا۔
الِهَذَا رَدٌّ رات کا درمیان

الِهَذَا رَدٌّ لولہ کا چھپکا آدمی یا تیر یا بھڑیا
لبا۔ سخت بدن کا گھوڑا۔ چھوٹا ٹیلہ
پانی کی چھوٹی ندی۔ باریک ریت۔ آفت
رات کا شروع یا بقیہ۔ پتلا بادل۔

ج: هَذَا رَدٌّ
الِهَذَا رَدٌّ: موٹے ہونٹ والا۔

الِهَذَا رَدٌّ: بد شکل۔
هَذَا رَدٌّ: جیت ہونا۔ چھوٹے چھوٹے
قدموں سے تیز چلنا۔

هَذَا رَدٌّ (من) هَذَا رَدٌّ: الشَّيْءُ جلدی
کاٹنا۔ جلدی کھانا صفت (ہاڈم)
الِهَذَا رَدٌّ: بہادر۔ کاٹنے والی تلوار۔

سِسَانٌ هَذَا رَدٌّ تیز بھالا۔
الِهَذَا رَدٌّ من سیوف کاٹنے والی تلوار
هَذَا رَدٌّ: چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔

الِهَذَا رَدٌّ وَ الِهَذَا رَدٌّ
کاٹنے والی تلوار جلدی کرنے والا
تکلیف دہ سفر

الِهَذَا رَدٌّ وہ لوگ جو ہر ایک کو اپنا اپنا خادم
تیاہیں۔

هَذَا رَدٌّ يَهْدِي هَذَا رَدٌّ بالسيف،
تلوار سے کاٹنا هَذَا رَدٌّ فِي الْكَلَامِ

بیماری وغیرہ کی وجہ سے غیر معقول سی
باتیں کرنا۔

هَذَا رَدٌّ يَهْدِي هَذَا رَدٌّ وَهَذَا رَدٌّ
بیماری وغیرہ کی وجہ سے غیر معقول باتیں
کرنا۔ کہو اس کرنا۔ صفت (ہاڈ)

اسم الِهَذَا رَدٌّ
اَهَذَا رَدٌّ: اللحم

گوشت کو بہت گلانا
هَذَا رَدٌّ هَذَا رَدٌّ آپس میں کہو اس کرنا۔
تَهَذَا رَدٌّ تَهَذَا رَدٌّ: رَجُلٌ هَذَا رَدٌّ وَهَذَا رَدٌّ

بہت کہو اس۔
هَذَا رَدٌّ (من) هَذَا رَدٌّ وَهَذَا رَدٌّ
الشيء: کسی چیز کو ناپسند کرنا۔ کراہت

کرناہت فی وجہ السائل سائل
کے سامنے تیوری پر بل ڈالنا۔ ترش
روئی دکھانا هَذَا رَدٌّ القوس کن

سے آواز نکالنا (— هَذَا رَدٌّ)
الشَّوْطُ کانٹے کا خشک اور سخت
ہونا۔ بسلحہ پانچنا کرنا۔

الدَّوَاءُ سَلَحٌ دسٹ لانا۔
هَذَا رَدٌّ (من) هَذَا رَدٌّ: الْكَلْبُ کتے
کا سردی کی وجہ سے بھونکنا (بناج سے

کم) — الْبَرْدُ الْكَلْبُ: سردی کا کتے
کو ڈالنا هَذَا رَدٌّ الْكَلْبُ الضَّيْفُ کتے کا
مہمان پر بھونکنا هَذَا رَدٌّ هَذَا رَدٌّ

هَذَا رَدٌّ الْاِبِلُ اونٹ کا ہر ار کی بیماری
میں مبتلا ہونا — سَلَحٌ

دستوں سے مرجانا
هَذَا رَدٌّ (من) هَذَا رَدٌّ بخلی ہونا هَذَا رَدٌّ
مُهاوَرَةٌ کسی کے سامنے تیوری چڑھنا

منہ بکاٹنا۔
اَهَذَا رَدٌّ الْكَلْبُ کتے کا بھونکنا۔
اَهَذَا رَدٌّ الْكَلْبُ کتے کا بھونکنا۔

اَهَذَا رَدٌّ الْكَلْبُ کتے کا بھونکنا۔
اَهَذَا رَدٌّ الْكَلْبُ کتے کا بھونکنا۔

اَهَذَا رَدٌّ الْكَلْبُ کتے کا بھونکنا۔
اَهَذَا رَدٌّ الْكَلْبُ کتے کا بھونکنا۔

گھاٹ پر لے جانا
الہ آ۔ دانتے نکالنے والا کت
الہ ر۔ اذٹ کی بیماری۔ اسہال
الہ س۔ بلا۔ ج۔ ہر دے۔ مرنٹ
ہر تے ج۔ ہر دے۔ بعض کے
نزدیک ہر کا اطلاق زرمادہ دونوں
پر ہوتا ہے۔ ہر تے کی تصغیر:
ہر سیرے۔

الہ س۔ اونٹ کے ہانکے یا پانی پر بلانے
کی آواز۔ کراہت لا یعرف ہر
میں سیرے اس کو دوست دشمن
میں تیر نہیں۔
الہ س۔ شیر۔ بہت دودھ اور پانی۔
الہ ر۔ دانت نکالنے والا کت۔
الہ ران لبر واق اور قلب مقرب
ستارے۔

الہ ر زمین پر گرے ہوئے انگور۔
الہ ر۔ کتے کی آواز (باج سے کم)
ادب غریبہ و آقبس ہر یزہ
بڑھے بد خلق کے لئے یزب لشل ہے
الہ ر وریغ۔ ہر کی بیماری میں مبتلا۔
ہر آہہ ہر آ فی منطیقہ۔

فحش اور بے ہودہ کلام کرنا۔
(ہر آ وہر آ عے) البرد فلانا
سردی کا کسی کو قریب ہلاکت کر دینا
ہر آت الریح مجھد کا سخت ہونا۔
اللحم گشت کو بہت پکانا
ہر آت رفس) ہر آ وہر آ و ہر آ و
اللحم گشت کا بہت پکانا
ہر آت۔ المواشی مویشی کا گرمی یا سردی
سے مرنا۔ صفت: مہر و عے۔

ہر آتہر آتہ۔ اللحم گشت کو اس قدر
گلانا کہ بڑی چھوڑ دے۔ البرد الماتہ
سردی کا مویشی کو بد حال کر دینا۔
آہ آہ آہ آہ۔ البرد۔ ہلاک کرنے

والی سخت سردی پر دنا۔ اللحم
گشت کو بہت پکانا۔ فلان فلانا
قتل کرنا۔ الکلام و فی الکلام
بے ہودہ کلام کرنا
تہر آ۔ اللحم گشت کا گل کر کھیر جانا
الہ آ۔ بے ہودہ کلام۔ بے ترتیب گفتگو
(والہر آ) بہت بولنے والا۔ بیہودہ
کہنے والا۔

الہ آ۔ درخت خرما کا پردہ۔
الہ س۔ نہایت گلا ہوا گشت۔
الہ س۔ سخت سردی کا دقت المہر آ
مفع۔ پکا ہوا گشت۔
ہر ب دن) ہر بیا و ہر دبا و ہر بیا۔
وہر بیا جانا۔ فی مشیہ تیر جانا
— فی الارض۔ دوزخ جانا۔

فی الارض۔ کام میں سخت مشغول ہونا۔
ہر ب رس) ہر بیا۔ الرجل: بڑھا
ہونا۔ ہر بیا بھاگن آہر ب
الرجل: گھبرا کر یا بغیر گھبراہٹ کے
بھاگنے کی کوشش کرنا۔ دوزخ جانا
— فلان فلانا کسی کا کسی کو بھاگنا
اھر بیت الریح ہوا کا مٹی اڑانا
تھا ر بواستھل کر بھاگنا۔ الہ ر ب
کہتے ہیں مالہ ہار ب و لا قارب
نہ اس سے کوئی بھاگنے والا ہے نہ اس
کے قریب آنے والا۔ یعنی ناکارہ
آدمی ہے اسے کوئی نہیں پوچھتا۔

الہ ر ب مم۔ بھاگنے کی جگہ۔
الہ ر سبہ ہندوؤں کے بڑے
لوگ یا ان کے پنڈت۔ آتش پستل
کی آگ کا خادم واحد (ہر بین)
الہ ر سبہ آہر بچال الہ ر بچیت
وچالاک چور یا بھڑیا ج۔ ہر ر ب
ہر آتہ (رن من) ہر آتہ۔ بالر مچ
نیرہ مارنا ہر آتہ اللحم گشت

پکانا اور خوب گلانا۔ الثوب:
کپڑا بچاڑنا۔ عرض فلان کسی
کی عزت خراب کرنا۔

ہر آت رس) ہر آتہ۔ الشی وسیع
اور کشادہ ہونا۔

الہر آت و الہر آت و الہر آت
والہر آت شیر۔

الہر آت۔ واسع۔ کشادہ۔ باچھول والا
راز فاش کرنے والا۔ بکواسی

الہر آت۔ چوڑی باچھول والا۔

المہر آت۔ چوڑی باچھول والا۔ بکواسی

المہر آت۔ شیر ج۔ مہر آت

الہر آت۔ پیرانا بوسیدہ کپڑا

الہر آت و الہر آت شیر۔

الہر آت شیر۔

ہر ج رس) ہر آتہ۔ الناس۔

لوگوں کا فتنہ فساد میں پڑنا۔

الباب۔ دروازہ کو کھلا چھوڑنا۔

الفس: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ فی

الحیث: بے جوڑ اور بہت گفتگو کرنا

ہر ج رس) ہر آتہ۔ ج۔ الرجل:

گرمی یا جلنے سے سانس چڑھنا۔

ہر ج۔ باسبح ڈانٹنا۔ ڈرانا۔

للنہر آت فلانا بنہ کا کسی کو مرمت

کر دینا ہر آت فی الحدیث گفتگو

میں مذاق کرنا

تھا ر ج۔ القوم: ایک دوسرے پر حملہ

آور ہونا۔

الہر آت۔ فلان من النہر آت

نہر سے مست ہونا۔

اسٹھر آت۔ لہ الرأی رائے کا

مضبوط اور وسیع ہونا۔

الہر آت۔ فتنہ و فساد الہر آت۔

بے وقوف۔ ہرگز و رچیز۔

الہر آت۔ زم کمان ج۔ ہر آت۔

الہرزاج بہت دورنے والا گھوڑا
الہرزاجۃ بے جوڑ اور بہت باتیں کرنے
والی جماعت - دُرُسُ پھرتا جو
میٹھی اج بہت دورنے والا گھوڑا
الہرزاجب ببا ج: ہرزاجیب
الہرزاجب لببا اور سنگڑا
ہرزاجل - رکھڑاتے ہوئے چلتا لمبے
لمبے قدم ڈالتا -
الہرزاجیل لببا آدمی - موٹا اونٹ -
الہرزاجل لبے لمبے قدم رکھنے والا -
ج: ہرزاجیل
ہرز د (دھن) ہرز د (چھڑنا - چرنا
اللحم: گوشت کو اس قدر کھانا کہ وہ بکھ
جائے - الشی - قادم ہونا -
غرضتہ: آبروریزی کرنا - الشی:
چیر کو خراب کرنے کے لئے بھاڑنا
ہرز د (دھن) ہرز د (اللحم گوشت
کا پک کر بیزہ بیزہ ہونا -
الہرز دیم فتنہ و فساد -
الہرز د - شتر مرغ - نکما آدمی -
الہرز د - زرو - کرم - شرح مٹی
ایک قسم کی جڑ ہیں جن سے کپڑے
رنگے جاتے ہیں -
الہرز د (دھن) والہرز د (ایک پودا - الہرز د
خراب ہو کر مچھا ہوا الہرز د الشدق
چوڑی باجھول والا -
ہرز د (دھن) ہرز د (سست دوڑنا -
الہرز د (دھن) ہرز د (مورت - بزدل -
بڑے پیٹ والا -
ہرز د ج - الرجل: تیز چلنا -
ہرز د (دھن) ہرز د (زور سے چھوٹنا بکڑی
سے مارنا
ہرز د (دھن) ہرز د (وہڑنا
ہلاک کرنا - مرنا -
تھروڑ من الجوع بھوک سے ہلاک ہونا

ہرز س (رن) ہرز س (الشیخ
خوب کوٹنا - الطعام: بہت کھا
ہرز س (دھن) ہرز س (پٹیو ہونا
چھپا کر کھانا -
الہرز س (دھن) ہرز س (بڑے بڑے کانٹوں کا ایک
درخت - واحد: (ہرز اسے)
ہرز اسے القوم: قوم کی عزت
اور اس کا سخت حملہ
الہرز اس شیر - الہرز اس (م - بی
الہرز اس (بی - پرانا کپڑا - بڑا خونخوار شیر
الہرز اس (خوب اچھی طرح کوٹنا ہوا
(والہرز اسے) ایک قسم کا کھانا
جو گزشت اور گندم کو کوٹ کر بنایا جاتا
ہے -
الہرز اس شیر - ہر لیسہ پکانے والا - یا اس
کا بیچنے والا -
الہرز اس (بی) ہرز اس (اوکھی - بہت کھانے
والا اونٹ - بھاری جسم کا اونٹ
رات کو چلنے میں نڈر - ج:
مہار لیں -
ہرش (دھن) ہرش (الکھڑ:
زمانہ کا سخت ہونا -
ہرش (دھن) ہرش (بدخل ہونا -
ہرش (دھن) ہرش (الکلاب کتے لڑانا
- بَیْنَ النَّاسِ - لوگوں میں فساد
ڈالنا -
ہارش مہارشۃ و ہرشۃ اشا
تبعی الکلاب علی بعضہا -
ایک دوسرے کے خلاف بھاڑنا
- فُلَانٌ فُلَانًا ایک دوسرے
پر حملہ کرنا - ایک دوسرے سے جھگڑنا
تھارشۃ و اھارشۃ الکلاب
کتوں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا -
تھارشۃ - النعم: بادل کا کھل جانا
الہرش - لڑائی - جھگڑا -

الہرش (دھن) الہرش (ظالم
المہارشۃ فامعارشۃ العینان -
مطیع گھوڑا -
ہرشۃ و اھرشۃ شفت -
الہرشۃ دوات کی صرف کا سوکھ
جانا -
الہرشۃ من الرجال و بلا بڑھا
بہت پیچنے والا - بہت بوڑھی -
الہرشۃ بہت عمر رسیدہ عورت بوڑھی
اونٹنی - دوات کا سوکھا ہوا صرف
ہرش (دھن) ہرش (خشک کھجلی والا
ہونا -
ہرشۃ الرجل خشک خارش -
الہرشۃ پانی کے ٹھرنے کی جگہ -
ہرشۃ (دھن) ہرشۃ (الثوب: کپڑا
بھاڑنا -
ہرشۃ (دھن) ہرشۃ (خشک کھجلی والا ہونا
ہرشۃ (دھن) ہرشۃ (عوضۃ فُلَانٍ
و فی عوضۃ آبروریزی کرنا -
فی الکلام - بے جوڑ اور بیوقوف گشت کرنا
ہرشۃ (دھن) ہرشۃ (بیماری یا خوف سے
گزشت کا ڈھیلا پڑنا -
تھارشۃ ایک دوسرے کو گالی دینا -
الہرشۃ (دھن) الہرشۃ (بہت بڑا
گوشت - متمول آدمی - دبلی بوڑھی بھیر
ناقۃ ہرشۃ (دھن) ہرشۃ (اونٹنی
ج: اھرشۃ و اھرشۃ -
الہرشۃ (دھن) الہرشۃ (بھیر - بے وقوف
بزدل - کمزور ج: ہرشۃ
الہرشۃ (دھن) الہرشۃ (ایک قسم کا فتنہ
ہرشۃ (دھن) ہرشۃ (الیہ:
اضطراب و محبت سے کسی طرف جانا -
ہرشۃ (دھن) ہرشۃ (الدم: خون کا
جدی ہونا - الرجل: تیز رفتاریا
جلدی رونے والا ہونا -



کرنا۔ انا قہۃ یقہ کا جیا کر منہ میں

مفلح ہونا۔ الہزب کیل۔ تھوڑا
 ہزج۔ مم۔ ہزجاً المعنی فی غنائہ
 گویے کا نروراک سے گانا یا پڑھنا
 بحر مزج کے اشعار پڑھنا۔
 ہزج۔ بمعنی ہزج۔ آہزج الشاعر
 بحر مزج کے اشعار بنانا۔
 تھزج بمعنی کھزج۔ الصوت
 آواز کا پے در پے ہونا تھزج
 تھزجت القوی کمان کا آواز نکالنا۔
 الہزج۔ مم۔ گرج کی آواز۔ ایک سروالا
 ترانہ عروض کی ایک بحر کا نام۔
 الہزج۔ ترانہ گانے والا۔ قوی ہزج
 بلکہ قدم ڈالنے والا گھوڑا۔
 الہزج من اللیل رات کا ایک حصہ
 الہزج ذبجۃ۔ ترم والا گیت۔
 ہزج ررض۔ ہزجاً۔ بالعصا بلاٹھی
 سے زور سے مارنا۔
 ہزج الشی۔ زور سے چبھونا۔
 فلاناً کسی کو جلا وطن کرنا۔ صفت مغولی
 مہنہ دہندہ کو ہزجید بہ الارض کسی
 کو زمین پر پھینکنا۔
 کسی کو بہت عطیہ دینا۔ الرجل
 منہنا حاجت کے لئے جلدی کرنا
 البائع گراں کرنا قیمت چڑھانا
 الہزاد۔ بیل۔ ہزار داستان۔ جہ
 ہزرات۔
 الہز۔ فریب خوردہ۔ بے وقوف۔
 سخت۔
 الہزرة والہزرة نرم زمین۔ جہ
 ہزرات۔ الہزرة۔ سستی۔
 دجل دھزرات ہر چیز میں نقصان
 زدہ۔
 ہزرت۔ فی عدہ۔ تیر دوڑنا۔
 الہزرات والہزرات والہزرات
 تیر رفتار۔ شتر مرغ۔ الہزرات

بڑے جسم کا۔
 الہزسی فی بہت حرکت کرنے والا
 ہزج (ن) ہزجاً جلدی کرنا۔ توڑنا
 ہزجۃ تھزجاً۔ ٹوٹے کڑے کرنا
 تھزج۔ الرجل جلدی کرنا۔ تیوری
 چڑھانا۔ لہ: اپنے کو اسجان بنانا
 عورت کو ڈلگانا۔
 الہزج۔ الشی: ٹوٹنا۔ الہزج
 جلدی کرنا۔ تلوار کا کانپنا۔
 الہزج اضطراب۔ الہزج اکیلا:
 ما فی العصبۃ الاسہم ہزجاً۔
 ترکش میں صرف ایک تیر ہے۔
 الہزج شکار کو کچلنے والا شیر۔
 الہزج شکار کو کچلنے والا شیر
 الہزج من اللیل رات کا ایک حصہ
 جہ: ہزج۔ الہزج جمع امتی۔
 الہزج۔ ترکش کا آخری تیر۔ ما فی
 الدار الہزج۔ گھر میں کوئی نہیں
 الہزجۃ خوف۔ جنگ کا شور۔
 الہزج۔ درختوں کو توڑنے والا
 کوٹنے والا۔ قدم مہزج
 تیز دوڑنے والا گھوڑا
 ہزجۃ (ن) ہزجاً الہزج: ہوا کا
 کسی چیز کو اڑا لے جانا۔
 ہزج (ن) ہزجاً۔ چست ہونا۔ فی
 الضحک بہت ہنسنا
 الہزج فی الضحک بہت ہنسنا۔
 الہزج۔ جستی۔ رم کی سخت آواز۔
 الہزج سخت گرج۔ بہت ہنسنا
 والا ادبھا آدمی۔
 الہزجۃ من النساء ایک جگہ قرار نہ
 پکڑنے والی عورت۔
 الہزج۔ جینچل عورت۔ بہت ہنسنے والی
 ہزج (ن) و ہزج (ن) و
 ہزج ہزجاً و ہزجاً و ہزجاً

لاغر و کمزور ہونا۔ ہزج لٹ حال
 فلان۔ فلان کا حال پتلا ہو گیا۔
 ہزج (ن) ہزجاً۔ فی کلا مہ
 مذاق و ٹٹھا کرنا۔ بکواس کرنا۔
 بے ہودگی کرنا۔ ہزج الدایۃ
 جانور کو دبا کرنا ہزج القوم
 قوم کے مولیٰ کا دبا ہونا۔ فلان
 کسی کا جانوروں کے مرنے سے محتاج
 دنگ حال ہونا
 ہزجاً۔ لاغر و دبا کرنا
 ہزجاً مہزجاً۔ ٹٹھا کرنا۔
 بے ہودگی کرنا۔
 الہزج فلاناً کسی کو کمزور کرنا کسی
 کو کھلاڑی پانا۔
 الہزج۔ مم۔ ڈبلان۔ لاغری۔
 الہزج نظرافت و خوش طبعی
 الہزج ال و الہزج بہت ڈبلا۔
 الہزج شیبہ باز کا فعل الہزج
 ڈبلا۔ جہ: ہزجاً۔
 الہزجۃ جہز الہزج ڈول لاغر۔
 ڈبلا جہ: مہزجاً بیل
 ہزج لہجہ ہزج لہجہ۔ جلدی کرنا
 الہزج لہجہ۔ تیز چال۔ سب چال بھیڑیا
 الہزج لہجہ۔ مم۔ آوازوں کا اختلاف۔
 جلدی۔
 الہزج (ن) ہزجاً۔ العذو۔
 دشمن کو شکست دینا۔ الشی
 الکلام: چھپانا۔ ہاتھ سے دبا کر
 گروھاؤن۔ القوی کمان کی
 آواز کرنا۔ لہ حقہ کسی کے
 حق کو کم کرنا۔ الہزج: کنواں کھودنا
 فلاناً قتل کرنا۔ (ہزجاً و ہزجاً)
 الہزج: صبح کی سفیدی کا ظاہر ہونا۔
 ہزجۃ علیہ۔ رغبت دلایا جانا۔
 تھزج۔ کمان کا آواز دینا۔ بادل کا گرنا



مشک کا خشک ہو کر چھٹنا۔ عمارت کا گرنا
 اَهْتَزَمَتْ فَشَكَتْ لَهَا نَاحِيَةً جَدِيًّا
 تَهْزَمُ وَاهْتَزَمَ بِالْمَاءِ بَدَلُهَا
 گرج کر بہت برسنا۔
 اهْتَزَمَتْ - السَّحَابُ بِالْمَاءِ بَدَلُهَا
 گرج کر برسنا اَهْتَزَمَ السَّحَابُ كَبْرَى كَرَى
 ذبح کرنا - الشَّيْءُ جَدِيًّا
 سبقت کرنا۔
 اسْتَحْضَرَتْ - الْجَبِيضُ فَوْجُهَا كَشَكَتْ
 دینا۔ شکست چاہنا۔ شکست
 خوردہ پانا۔
 اَهْتَزَمَتْ - سَبِيَّتْ - جَرَّ : هَوَازْمُ -
 اَهْتَزَمَ مِمَّ - بَسْتْ زَبِيْن - پانی سے خالی
 پتلا بادل - جَرَّ : هَوَازْمُ -
 اَهْتَزَمَ مِمَّ - بَسْتْ زَبِيْن - پانی سے خالی
 عینت ہیزم - دھواں دھار بارش
 اَهْتَزَمَتْ - لَمَانُ كِيْ آواز
 اَهْتَزَمَتْ - بَرَّحَ حَوَازْمُ كِيْ دَانِيْ
 نرم جسم میں پیدا ہو جائے۔ بَسْتْ زَبِيْن
 سینہ کا گرہا۔ سَبِيَّتْ لِيْ كَاكِزْ هَا جَرَّ
 هَزَمُ وَهَزَمُ دَمَ وَهَزَمَتْ قَدْرُ
 هَزَمَ مَتَ - بہت اپنے ولی باڈی
 اَهْتَزَمَتْ - آواز دینے والی کمان
 اَهْتَزَمَتْ - گرج کی آواز۔ گرج نہ ٹھہرنے
 والی بارش - سخت آواز والا گھوڑا
 شکست خوردہ لشکر
 اَهْتَزَمَتْ - شَكَتْ - بہت پانی والا کنواں
 اَهْتَزَمَتْ - سَحْتْ - مضبوط - شیر
 الْمُسْتَحْضَرُ رَعْدُ - ٹوٹا ہوا زلزلہ۔
 الْمِهْزَامُ - آگ ہلانے کی کڑی - لرینی
 چھوٹی سونپی - کڑی جس کے سرے
 پر آگ لگا کر بجھ کیے ہیں - جَرَّ :
 مَهَا زَبِيْن -
 هَزَمَتْ هَزَمَتْ هَزَمَتْ - ہانا مغرب کرنا
 تَهْنَزَمَتْ - الشَّيْءُ - ہانا - الیہ قلی

دل کا خوشی سے اچھلنا
 اَهْتَزَمَتْ - كَثَرَتْ سَبِيْن - والا پانی
 اَهْتَزَمَتْ - بَلَدِيْن - والے فتنے۔
 اَهْتَزَمَتْ - بہت بچنے والا پانی - صاف
 اور چمکتی ہوئی تلوار۔
 اَهْتَزَمَتْ - كَثَرَتْ سَبِيْن - جاری ہونے والا
 پانی - بہت گرا کنواں - بہت پانی
 والا چشمہ۔
 اَهْتَزَمَتْ - جَنَاقَ - وقتہ بھڑکانا۔
 هَشَتْ رَنَ - هَشَا - الشَّيْءُ كَرُونَا - توڑنا
 هَشَتْ رَنَ - هَشَا - دل میں بات کرنا۔
 اَهْتَزَمَتْ - رِيْزَ رِيْزَ شَدَّ - پوشیدہ کلام
 هَشَتْ هَشَتْ هَشَتْ - الماءُ پانی کا
 لگا تار ہنا - الدُّعُؤُ الدُّعُؤُ
 زہ یازور کا آواز کرنا۔
 الْحَبِيْثُ : بَاتْ حَبِيْثْ چھپانا۔
 تَهَشَتْ هَشَتْ - الدُّعُؤُ الدُّعُؤُ
 زہ یازور کا بھنکانا۔
 اَهْتَزَمَتْ رَاتْ كَا سَفَرْ هَشَا هَشَتْ
 الْمَنَاسِ - لوگوں کا پوشیدہ کلام
 اَهْتَزَمَتْ - تمام رات بکریاں چلنے
 والا چرواہا - کام کے لئے تمام رات
 جاگنے والا - قصائی غیر واضح کلام
 دوسرے۔
 اَهْتَزَمَتْ مِمَّ - زہ یازور کی بھکار
 نرم آواز والی چیز۔
 هَشَتْ رَنَ (ص) هَشَا - وَرَقُ الشَّجَرِ
 لاٹھی سے درخت کے پتے جھاڑنا۔
 هَشَتْ رَنَ (ص) هَشَتْ شَمَتْ - الْخَبْرُ
 روٹی کا نرم ہونا - الرَّجُلُ آدمی کا
 سست و کمزور ہونا۔
 هَشَتْ (ص) هَشَا شَمَتْ وَهَشَتْ شَمَتْ
 الشَّيْءُ : زَمَ اور ڈھیلہ ہونا صفت
 (هَشَتْ) - الْعَوْدُ کڑی
 کا جلد ٹوٹنے والا ہونا۔

هَشَتْ شَمَتْ - کمزور پانا۔ خوش کرنا
 اَهْتَزَمَتْ - لَكَنَ اَخُوْشْ ہونا۔ خواہش مند ہونا
 اَهْتَزَمَتْ فَكَلَتْ رِيْ - فلاں مجھ سے
 خوش ہوا۔
 اسْتَحْضَرَتْ - بَلَا سَمَجْنَا -
 اَهْتَزَمَتْ مِمَّ - زَمَ - ڈھیلہ خُبْرَہ
 هَشَتْ زَمَ - زَمَ - زَمَ - زَمَ - زَمَ - زَمَ -
 هَشَتْ الْمَكْسِرُ مَرَبَان - نرم خو۔
 هَشَتْ الْوَجْهَ خِزْهَ پشانی - منہس مکھ
 فَدَسَتْ هَشَتْ بہت پسینہ لانے والا
 گھوڑا - اَنَابِيْ هَشَتْ بَشَتْ -
 میں اس سے خوش ہوں قَسْبَتْ
 هَشَا شَمَتْ - بکینے والی مشک۔
 نَاقَةُ اَدَمَاةُ هَشَتْ بہت دودھ
 والی اونٹنی یا بکری۔
 اَهْتَزَمَتْ سَوَالِ كِيْ وَتْ خوش ہونے
 والا - زَمَ مان لینے والا جنگ گھاس
 هَشَتْ رَنَ - كَهَشَتْ - النَاقَةُ
 اونٹنی کا سب دودھ دہنا۔
 اَهْتَزَمَتْ - مِمَّ - بَلَا بِنَ - پتلین۔
 اَهْتَزَمَتْ - كَبِيْرَ غُرُورِ شَجَرَةٍ هَشَتْ
 دھنڈو - دہ درخت جس کے پتے
 جلد گر جائیں - اَهْتَزَمَتْ -
 هَشَتْ - تَهْمَشِيْلَا - النَاقَةُ
 اونٹنی کا تھوڑا دودھ اُتارنا۔
 اَهْتَزَمَتْ الرَّجُلُ : بَلَا بِنَ كِيْ اِجَازَتْ كِيْ بَغِيْرَ
 سواری کا جانور کسی کو دینا۔
 اَهْتَزَمَتْ الْقَرْصُ گھوڑے پر بغیر مالک
 کے اجازت کے سوار ہونا۔
 اَهْتَزَمَتْ - دہ سواری کا جانور جس پر مالک
 کی اجازت کے بغیر سوار ہوں -
 مِّنَ الْاِبِلِ دَعَا بِنَ عَضْبَ كِيَا ہوا
 اونٹ وغیرہ۔
 اَهْتَزَمَتْ مَوِيْ بُوْرَحِيْ اَدَمِيْ -
 هَشَتْ رَنَ - هَشَمَا - الشَّيْءُ توڑنا



الْهَضْبُ كَص - چمکیلی آنکھوں والا
هَضْبًا يَهْضُبُوا هَضْبًا - الرَّجُلُ
بوڑھا ہونا۔

هَضْبًا مَهْمَا مَآة - پیچھ توڑنا۔
الْهَضْبُ مَضْبُوطٌ لُوك -

هَضْبٌ رَن (هَضْبًا) الشَّيْءُ: چیز کو توڑنا
باریک کرنا۔ صفت مفعولی۔ هَضْبُفٍ
وَمَهْمُوفٍ - هَضْبَتِ الْاَيْلُ اَذْوَنُ
کا تیر چٹنا هَضْبٌ فَلَانُ الشَّيْءِ
وہ خوبصورت چال چلا۔ فَلَانًا: کسی کو
ترغیب دینا۔

هَضْبُفٌ - زین پر پاؤں زور سے مارنا
اِهْضَبْ شَيْءًا: توڑنا۔ اِهْضَبْ نَفْسَهُ
لِفُلَانٍ - وہ فلاں کے سامنے
تباہدار ہو گیا اور بغیر انصاف کے
راستی ہو گیا۔

الْمَهْضَاءُ اَذْمِيُونِ كِي جَاعَت - گھوڑوں کا
گلہ۔

الْمَهْضَاءُ جِرَانُ كِي گردن توڑنے والا۔
الْمَهْضَاءُ شَكْلُ - ٹوٹ۔

هَضْبَتِ رَضٍ هَضْبًا - اَلْسَاءُ
آسمان کا برستا الساءُ القَوْرُ
خوب اچھی طرح تر کر دینا۔

هَضْبَتِ الرَّجُلُ كَسِي كَاسَت
چال چٹنا - الْقَوْرُ فِي الْحَدِيثِ
زور زور سے باتیں کرنا۔

اَهْضَبَ الْقَوْمُ - پہاڑ کی چوٹیوں پر اترنا
اِهْضَبُوا - فِي الْحَدِيثِ بِلْدَا وَاَزَى
باتوں میں لگنا۔

اِسْتَهْضَبَ الْجَبَلُ - پہاڑ کا زمین پر
بھیلا ہوا ہونا

الْمَهْضَبَةُ - زمین پر بھیل ہوا پہاڑ۔
بِلْزَمِينَ - بارش کی برچھاڑ ج:

هَضْبٌ وَهَضْبٌ وَهَضْبٌ وَهَضْبٌ وَهَضْبٌ
هَضْبَاتٌ وَحَجَّ اَهْضَابٌ -

زور سے دباننا۔ صفت مفعولی:
(هَضْبِيصٌ وَمَهْمُوفٌ) -
هَضْبُفِ الرَّجُلُ چمکیلی آنکھوں والا ہونا
الْمَهْضَاءَةُ بائنی کی آنکھ۔

اَمْهَضٌ - ہر سخت چیز کی پھل ہوئی چیز۔
الْمَهْضِيصُ - روندی ہوئی پھل ہوئی چیز۔

هَضْبُفُ النَّارِ - آگ کی جھک۔
هَضْبُفِ رَضٍ هَضْبًا - بھگانا

هَضْبُفِ رَضٍ هَضْبًا - الشَّيْءُ وَمَا لَشَيْءٍ
چیز کو کھینچنا اور بھگانا - الْغَضْبُفُ

وَيَا لَفَضٍ شَارَخَ بْهَكَانَا يَامُورُكَ
بغیر آگ کرنے کے توڑنا۔ الشَّيْءُ:

توڑنا۔ بٹنا۔ قریب کرنا۔
مسر کو دباننا - اَلْاَسَدُ فَوَاسِيَتَهُ

شیر کا اپنے شکار کو توڑنا۔
اِهْضَبْ رَدَّ اِهْضَبْ - بھگانا کھینچنا جانا

مونا - اِهْضَبْ كُجُورُكَ خُورَ دُرُورَت
کرنا۔

تَهَضَّرَتْ - اَغْصَانُ الشَّجَرَةِ وَرَحْتَ
کی ٹہنیوں کا بھگانا۔

الْهَضِرُ وَالْهَضِرُ وَالْهَضِرُ
وَالْهَضِرُ وَالْهَضِرُ وَالْهَضِرُ

وَالْهَضِرُ -
وَالْهَضِرُ وَالْهَضِرُ وَالْهَضِرُ

وَالْهَضِرُ وَالْهَضِرُ - شِير -
رَجُلٌ هَضْبٌ مَسْكُوبَتِ دِبَانِ

الْهَضِرُ وَالْهَضِرُ - گرنے کا جو تعویذ
کے طور پر پہنا جائے۔

اَلْهَوَايِرُ وَالْهَوَايِرُ - شَارَكَو بْجَارَتِ
والا شیر۔

هَضْبَةً رَضٍ هَضْبًا تَوْرُنَا
هَضْبُهُ هَضْبُهُ هَضْبُهُ هَضْبُهُ

الْمَهْضَاءُ وَالْمَهْضَاءُ -
مضبوط آدمی یا شیر۔

صفت (هَاشِمٌ)
هَشِمٌ - بہت توڑنا - فَلَانًا: کسی کا اکرام
کرنا۔ تعظیم کرنا - النَّاقَةُ: اونٹنی
کو دوہنا۔

تَهَشَّمَ الشَّيْءُ: چیز کا ٹوٹنا - الشَّجَرُ:
درخت کا سوکھ کر ٹوٹنا - اَلْاَيْلُ:

اونٹ کا سست اور کمزور ہونا -
فَلَانُ الشَّيْءُ: توڑنا - الرَّجُلُ:

اکرام کرنا - النَّاقَةُ: دوہنا -
زیدًا: مہربان بنانا۔ رضا مند کرنا۔

عَلَى فَلَانٍ: کسی پر مہربان ہونا -
تَهَشَّمَتِ الْاَرْضُ: بارش رک جاتے

سے زمین کا خشک ہونا۔
اِهْشَمَ الشَّيْءُ: ٹوٹنا

اَهْشَمَ النَّاقَةُ: اونٹنی کو دوہنا
الْهَاشِمَةُ بڑی توڑنے والی ضرب۔

الْمَهْشَامُ فِائِمِي -
الْهَشِمُ قَطْرُ زَوْهَ زَيْن - ج:

هَشُور -
الْهَشِمُ سَحَى الْهَشِمُ نَزْمٌ مِهَاڑ -

دودھ کے ماہر دوہنے والے۔
مفرد (هَاشِمٌ)

الْهَشِمَةُ مِهَاڑی بکری - ج:
هَشِمَات -

اَلْهَشِيمُ رُطَا ہوا۔ ٹوٹی ہوئی - خشک
گھاس - کمزور بدن والا۔

الْهَشِيمَةُ وہ زمین جس کے درخت سوکھ
گئے ہوں - سوکھا درخت۔

مَا هُوَ اَلْهَشِيمَةُ كَرْمٍ
وہ فِائِمِ آدمی ہے۔

هَشْمَشَ الشَّيْءُ: حرکت دینا
الْمَهْشَاشُ - خوش خلق - سخی

هَاشَاةٌ مَھَاشَاةٌ - مذاق کرنا۔
هَضْبِي رَن (هَضْبًا) الشَّيْءُ: روند کر لینا۔

توڑنا۔ باریک کرنا۔ انگلیوں سے

رَجُلٌ هَضْبَةٌ بَاتَنِي أَدْمَى
الْهَضْبُ هَبْتُ هَبْتُ مَضْبُوطٌ هَبْتُ يَسْدِي هَبْتُ
وَالْأَكْهَرُ -

عَنْ هَٰذِهِ كَمْ دَوْدُ كِي كَمِي -
الْأَهْوَ بَ - مِ الْمَطَرِ بَارِشِ كِي
بِجَاهِ ج: آهَاضِيْب -

هَضَج المَواشِي مولىٰ شى کو اچھی طرح نہ
چرانا۔ صَبَّانُ هَضَجٍ چھوٹے بچے
هَضَل (نض) هَضَلًا بِالشَّعْرِ

او بالسلامت بہت کہنا
اھضکت السماء بارش بر سنا۔
— الدلولو: دُول کا کنویں کی دیوار

سے ٹکرا کر پانی سے بھر جاتا۔
 المَقْضَلُ مم. بہت
 المَقْضَلَاءُ لمبے پستان والی عورت۔

المَقْصَلُ حُدًى خَوَا -
الْمَيْضَلُ - بِتَحْيَا رَسَدِ جَمَاعَتِ - بِطَرَفِ فُجْجِ
جَمَلٌ هَيْضَلٌ مَرْمَا بِطَرَفِ الْمَاوِطِ

الْهَيْضَلَّةَ - مِنَ التَّوْقِ مَوَلًى لِمَا دُفِنِي
 بوطھی ادھنی - زیادہ دودھ دینے
 والی - ادھیڑ عمر کی عورت - لوگوں

کی مخلوق آدازیں۔ ہتھیار نید جماعت
هَضَمَ (عن) هَضَمًا الشیءُ: چیز کو توڑنا
— فلاناً: ظلم کرنا۔ غضب کرنا۔

اسم (الْمَيْضَمَةُ) هَضَمَهُ
حَقَّقَهُ کسی کے حق کو کم کرنا هَضَمَ
لَهُ مِنْ حَقِّهِ اپنے حق میں سے کسی

تَوَرَّعْنَا تَهَضَّعَ لِقَوْمٍ مَبِيعٍ مَرْنَا
 اِنْهَضَّعَ الطَّعَامُ كِهَانِے كَا مَضْمُ مَرْنَا -
 الشَّيْءُ : مَنَا -

اِهْتَصِمَةُ عَلِيمٍ كَرَمًا - جِحِينَا حَقِّ كَم كَرَمًا
الْمَا صِمُّ - تَا مِصْمُ كَرَمًا وَالدَّوَا
الْمَا صِمَّةٌ مَوْثُ - الْمَا صِمُّ الْمَا صِمُّ كَرَمًا

المَقْصُوم دوائے ہضم۔ اپنا مال خرچ کرنے والا۔ شیر۔
المَقْصَد غذا کو ہضم کرنے والی دوا۔

الهضم. مم. نذاكا جزو بدن هونا
الهضم والهضم پست زمین. بطن
وادی ج: اهضام وهضوم و

(- الھفم والھفمۃ) ایک قسم کی دھونی
لھفوم ہذا کو مہتمم کرنے والی چیز۔
میں ہفوم۔ قیاض ہاتھ۔ ج۔

ہَضِيم -
لَهَضِيم جھڑپ میں ظلم کیا گیا ہوا۔
اِمْرَاةٌ هَضِيمٌ تیل کر کے عورت

الْمَهْطِلُ مَصْرُ - لگاتار ہلکی بارش - جھڑی
تھکن

الْمَهْطِلُ - بھیر یا چور - بیوقوف -

الْمَهْطِلُ - بڑی بڑی بوندوں کی لگاتار
بارش - دُمِیْمَةُ الْمَهْطِلِ وَهْطَلَاءُ
موتی موتی بوندوں کی جھڑی -

نَاقَةُ الْمَهْطِلِ - آہستہ چلنے والی
ادھنی - اَبْلُ الْمَهْطِلِ وَهْطَلَى
بغیر چرواہے کے آزاد چھوٹے ہوئے
اونٹ -

الْمَهْطِلُ لومڑی - غازیوں کی ایک چھوٹی
جماعت - ماوراء النہر کا علاقہ
ترکوں یا ہندوستانیوں کی ایک
جماعت - جہ - هَيَا طِلْ
وہیاطیتہ -

الْمَهْطِلَةُ بَیْتٌ یَا تَانِیَہِ کی دیگی
هَطَلَسَ - الشیءُ: تمام لے لینا
هَطَلَسَ - اللصُّ - حیل کرنا -
الْمَرْيُوسُ مِنْ عِلَّتِهِ مرض میں
افاقہ پانا -

الْمَهْطَلَسُ وَالْمَهْطَلَسُ - راہزن
چور، بھیر یا - بڑا لشکر
هَطَمَطَ الْعَرَسُ گھوڑے کا منہ نانا -
- الرجل: تیز چلنا - فی النعل
کام میں تیزی کرنا -

الْمَهْطَا هَطَّ گھوڑا
هَطَا يَهْطُو هَطْوًا - کبڑا - پھینکنا -
الْمَهْطِي - پچھاڑ - سخت چوڑ -
هَطَّ (ن) هَطًا وَهَطًا -

هَطَّتْ (ن) هَطًا وَهَطَّتْ هَطًّا الرِّجْمُ
ہوا کا سائیں سائیں کر کے چلنا -
هَطَّ الرَّجُلُ تیز چلنا - الشیءُ
سبک اور ہلکا ہونا -

اِهْطَفَ - السراب کا چمکنا -
اِهْطَفَتْ اُذُنُهُ کان کا سائیں سائیں کرنا

اِهْطَفَ - کھیتی جس کی کٹائی ہونے کی وجہ سے
اُس کے دانے بکھر جائیں - چھوٹی

مچھلیاں - پانی کے بڑے بڑے
کالے کیرٹے - واحد: هَطَّةٌ وَ
اِهْطَفَ ہلکا پھیکا آدمی - خالی شہد
کا چھتہ - ہر ہلکی کھوکھلی چیز -

سَمَكٌ هَطَّ تپکا پانی سے خالی بال
کہتے ہیں مَا قِيَّ بَيْنَهُ هَطَّةٌ وَلَا سَفَاةٌ
- تمھارے گھر میں نہ کھانے کو
کچھ ہے اور نہ پینے کو -

الْهَقَاتُ - چمکنے والا - مِنَ الْأَجْنَحَةِ
پرواز میں ہلکا مِنَ الْقَمُصِ تپکا،
شفاف قمیص - مِنَ الْحَمْرِ
سبک و چست من الطلال ٹھنڈا
سایہ دہلُ هَقَاتُ الْقَمِيصِ
ہلکا پھیکا آدمی -

الْهَقَاةُ مَوْنُثُ الْهَقَاتِ
خوش گوشت یا تیز چلنے والی ہوا -

الْهَقَاتُ کھوج - نشانِ جاء و علی
هَقَاتٍ وہ اس کے نشانات قدم
پر آیا جَا رِیۃً مُهَقَفَةً
پتلی کر کی لڑائی -

هَقَّتْ (ن) هَقَّتًا وَهَقَاتًا -
الشیءُ: ہلکے پن سے حیرا کر اڑنا -
بست ہونا - تپکا ہونا الرَّجُلُ نا سبھی
سے بہت بولنا -

تَهَقَّتْ - علی الشیء لگاتار گرنا -
أَلْفَرَأْسُ عَلَى النَّارِ پروانہ کا آگ
میں گرنا - النَّاسُ عَلَى الْمَاءِ
لوگوں کا پانی پر بھیر کرنا - الْقَوْمُ
لوگوں کا مرکز گرنا - الثوبُ: کپڑے
کا بوسیدہ ہو کر گرنا -

اِهْطَفَتْ الشیءُ: چیز کا پست ہونا
ذیل ہونا -
الْهَقَاتُ احمق -

الْهَقْتُ مِمَّ لَیْسَتْ زَمِنَ - بہت بیوقوفی
ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنا الْهَقْتُ

مِنَ الْمَطَرِ تیز برسنے والی بارش -
مِنَ الْكَلَاهِ بے سوچے سمجھے بہت
گفتگو -

الْمَهْقِفَةُ - مِّنَ النَّاسِ بھوک اور
سختی کے مارے ہوئے لوگ -

الْمَهْقُوتُ متحیر - حیران -
تَهَقَّتْ مضطربانہ سرت رتنا چلنا
الْمَهْقُوتُ نا مضطرب سست رفتار
(- وَالْمَهْقُوتُ) بہت خطا اور
غلطی کرنے والا -

هَقَفَتْ هَقْفَةً - الرَّجُلُ: پتلے بدن
والا اور نازک اندام ہونا -

ظَلَّ هَقَفَتْ سروسایہ جس میں سرد ہوا
چل رہی ہو -

الْمَهْقَاتُ تپکے پٹ والا - پیاسا - تپلا،
شفاف کپڑا عَشْرَةً هَقْفًا
سایہ دار ٹھنڈا کرنا -

الْمَهْقُوتُ - تپکے پٹ اور باریک کروالا
مَوْنُثُ: مُهَقَفَةً
هَقًا يَهْقُو هَقْوًا وَهَقْوَةً وَهَقْوَةً
جلدی چلنا - الطائرُ: پرندہ کا پر

پھڑپھڑا کر اڑنا - الرجلُ:
پھسنا - بھوکا ہونا -

هَقَّتْ تَهَقُّو هَقْوًا وَهَقْوًا


الرَّيْثَةُ اِذَا صَوَفَتْ فِي الْهَوَاءِ
پر یا اُون کا ہوا میں اڑنا - الرِّجْمُ
الرَّيْجُ بِالْمَوْقِفِ ہوا کا اُون کر اڑنا
هَقًا الْفَوَادُ - دل دھڑکنے کی چیز
کا گردیدہ ہونا - فُلَانٌ: اوجھا ہونا
هَقًا الظِّلْمُ شرمزادہ کا دھڑنا
هَقَاةٌ مُهَقَاةٌ خواہش کی طرف
مائل کرنا -

الْهَقَاتُ نا - بھوکا -

الْهَيْبَةُ مَوْنُ الْهَاقِي ج: هَوَاتٍ
هَوَاتِي الْإِسْلَامِ - گم شدہ اونٹ
الْهَقَّاءُ بَرَسُ كَرُوكْ وَكْ جَانِيوَالِي بَارَش
الْهَقَّاءُ غُلْفِي - لغزش
الْهَقَّاءُ بَارَش رَجُلٌ هَقَّاءٌ بَعْدَ وَقْفٍ
آدمی -
الْهَقَّاءُ لَغْزَش ج: هَقَّوَات -
الْهَقَّاءُ بِرَقُوت لُوكْ
هَقَّ (رَض) هَقَّاءٌ - الرَّجُلُ: بَهِانَ -
هَقَّ (رَف) هَقَّاءٌ - الْفَرْسُ: كُورُءِ كِ
داغ لگانا -
تَهَقَّقَ الرَّجُلُ عَلَيْنَا: بِرَقُوتِ بِنَا تَكْرِيكَرْنَا
تَهَقَّقَ - اوندھا ہونا -
اَهَقَّقَ - الرَّجُلُ: سَبْتٌ مَبْهُوكَا هُونَا -
اَهَقَّقَهُ رُوكَا - مَنَعُ كَرْنَا اَهَقَّقَهُ
فُلَانًا عَرَقُ سُوَيْءٍ - فُلَانٌ كُوَسْ كِ
بَدِئِی نے شرف تک پہنچنے سے روک
وَيَا اَهَقَّقَتِ الْحَنِي فُلَانًا
کسی کو سباز ایک دن چھوڑ کر چڑھنا -
اَكَا تَرَا آنا -
اَهَقَّقَ - كَوْنُهُ عَرَفَ يَا كَبِيرَا بَسْ
رنگ تبدیل ہونا -
الْهَقَّاعُ غَمٌّ يَا بِيْمَارِي كِي وَجْهَ سَ پِيْدَا
شدہ غفلت -
الْهَقَّاعُ حَرِيصٌ - مَوْنُ: هَقَّقَةُ
الْهَقَّقَةُ چاند کی پانچویں منزل میں تین
ستاروں کا نام - گھوڑے کے سینے
کے وسط میں دائرہ -
الْهَقَّقَةُ لُوكْ كِ دَرْمِيَانِ سَبْتٌ مُكْ
لگانے والا یا لیٹنے والا
الْهَقَّقَةُ تَلْمَارُ كِي هَبْكَا - آواز
سننے کے لئے خشک چیز کو خشک
چیز پر مارنا یا لوسے کو پتھر سے مارنا
الْمَهْقُوعُ مَقْعٌ: دَسَطُ سِيْنِهِ پَر دَاوَرُہ رَكْنِ
دالا گھوڑا -

الْهَاقِلُ چوبہا -
الْهَقْلُ شَرْمَرُغ - مَبَا بے وقوف -
مَوْنُ: هَقْلَةُ
الْهَقْلُ مَبْهُوكَا -
الْهَقْلُ - جَوَانُ شَرْمَرُغ - كُورُہ -
الْهَقْلَةُ اَكْبَ قِسْمُ كِي چَال -
هَقَمَ (رَس) هَقَمًا سَبْتٌ مَبْهُوكَا هُونَا
صفت (هَقَمَ) سَبْتٌ لُحَانِ پَر
بھی بد قسمتی نہ ہونا -
تَهَقَّمَ مَغْلُوبُ كَرْنَا - تَهَقَّمَ -
الطَّعَامُ: كُھانے کو برابر بڑے بڑے
لقموں سے نگلنا -
الْهَقَمُ سَمْدَر - پیلو - بِلَا رُخُور
الْهَقَمُ - كَشَا دَہ سَمْدَر - سَمْدَرُ كَا شُور
هَقَّ كَهَقَّ هَقَّاءٌ - كَبُوَسْ كَرْنَا -
فُلَانًا: كُسی كُو دُشْمَانِ دُنْيَا -
فَوَا دُہ - دِل پُر اُگندہ ہونا -
اَهَقَّاهُ اَهَقَّاءٌ - خَرَابُ كَرْنَا -
هَقَّ (رَن) هَقَّاءٌ كُورُ كَرْنَا -
الطَّائِرُ پَرندہ کا بیٹ کرنا -
السَّخَاوُ شَرْمَرُغ كَا پَا سِنِیَا تَكْرَا
الشَّيْ: پینا صفت مَقُولِ
(مُكْلُوكْ وَهَكِيكْ)
هَكَّ يَا لَرْمُحَ نِيْزَہ مَوْتَا تَہ مَارْنَا -
هَكَّ يَا لَسِيْفَ سَلْوَار مَارْنَا
هَكَّ النَّيْزُ فُلَانًا مَبِيْدَا كُسی كِ
مَتُو لَا كَرْنَا - اَللَّيْنِ: دُودھ لُكَا لَا
- فُلَانًا: لَا غُرُو دُلا كَرْنَا -
- النَّجَارُ الْخَرَقُ بَرُھِي كَا سُوْرُغْ
كُو سِيْعُ كَرْنَا هَكَّتِ الْبُكْرُ كُنُوْیْ
کا ڈھنا -
هَكَّ - الشَّيْ: چیر کا گرایا جانا -
تَهَكَّتِ الرَّجُلُ مُضْطَرَبٌ هُونَا
اَهْمَلَقَ - الْبَحِيْرُ اُونٹ كَا بَیْھُتِے وَتِ
زَیْنِ سَے چَپٹ جانا - الرَّجُلُ:

کسی کا نیزے سے مست ہونا -
الْهَقَّ مَصْر - فَاَسَدُ الْعَقْلِ - ج:
هَكَّتَ وَ اَهَكَّاكَ سَبْتٌ بَارَش
الْمَكْلُوكْ ذَاقٌ وَ سَبْتِی كَرْنِے وَ اَلَا - كُورُہ
كُیْنِے
رَجُلٌ هَكَّاكَ بَے نِيَادَا ت كُو صَبِيْحٌ مَبْهُوكَا
كُورُہ
هَكَّوْ - مَوْتَا - ذَاقٌ وَ سَبْتِی كَرْنِے وَ اَلَا
سَبْتٌ جِگہ یَا زَمِ جِگہ -
الْمَكْلُوكْ پَسَا هُوَا - مَحْتَش -
الْمَكْلُوكْ مَقْعٌ: مَسْحَا بَے بَاك -
الْمَكْلُوكْ - دَہ عَوْرَتُ جَوْدُوَارِی سَے سَچَہِجَہِ
هَكَّبَ (رَض) هَكَّبًا - يَہِ ذَاقُ كَرْنَا
هَكَّنَ - عَلٰی غَرِيْبِيْہِ مَقْرُوضُ پَر تَشَدُّدُ كَرْنَا -
وَاوَا دُاَنَا -
هَكَّرَ (رَض) وَ هَكَّرَ (رَس) هَكَّرًا وَ
هَكَّرًا وَ هَكَّرًا - مَن كَرْنَا
سَبْتٌ تَعَبُ كَرْنَا
هَكَّرَ (رَس) هَكَّرًا وَ هَكَّرًا - اُونُكْھَا آتَا
تَهَكَّرَ - حِرَانٌ وَ مَتَعَبٌ هُونَا -
الْهَكَّرُ - مَتَعَبٌ (رَس) وَ اَلْهَكَّرُ
اُونُكْھَا وَ اَلَا - مَا يَنْبَغِيْ مَهَكَّرًا وَ
مَهَكَّرًا - اس میں کوئی تعجب نہیں -
هَكَّ (رَف) هَكَّوْغَا آرَامُ كَرْنَا مَهْرَا
هَكَّعَتِ الْبَقِيَّةُ مَحْتَشَ الشَّجَرِ
شدت کی گرمی میں گائے کا درخت کے
سایہ میں آرام لینا: الرَّجُلُ: اَقَامَتْ كَرْنَا
كُتَبِيْنِ ذَهَبَ فُلَانًا فَمَا يَكْدِي
اَيْنُ سَكَّهَ وَ اَيْنُ هَكَّهَ -
کوتی پتہ نہیں کہ وہ کہا گیا اور کہاں ظہر
هَكَّهَ الْكَلْبُ رَا ت كَا اَنْدِيْرُ لِيْہِيَا
فُلَانًا يَا لَقُوْہِ وَ اَلِي الْقُوْہِ
شام کے بعد قوم کے پاس آنا - الرَّجُلُ:
غَمٌّ يَا غَضَہ سَے مَحَبَّانَا - اِلَى الْاَرْضِ
زَیْنِ كِي لُفٹ جِگہنا - غَطْمُہ -



بڑی کا درست ہونے کے بعد ٹوٹنا۔
هَكَجَ دَس. هَكَجًا دَ اَهْتَكَجَ مِيلَعُ مَرَا
گھبراننا۔ خاکساری کرنا
الهَكَجَ. كَهْجَ نَسِي. تَكَانَ كَ بَعْدِ كِي نَبِيْدَ
الهَكَوَجُ. درخت کے سایہ میں آرام لینے
والا۔ گابیوں کا گھر۔

الهَكَعَتِ اَمْتِ
هَعَلَّ. تَهْكِيلًا. الْعَصَانُ وَالْمَرَاةُ
شکبرانہ چال چلنا۔
تَهَا كَلَّ. الْقَوْمُ قَرَمَ كَمَنْ اَمْرٍ مِّنْ جَعَلْنَا
هَيْكَلًا. الزَّرْعُ يَهْبِي كَبَرْدٍ هَنَا۔
دراز ہونا۔

الهَيْكَلُ. لمبى نباتات يا درخت۔
واحد (هَيْكَلَةٌ) اونچی عمارت
موتاجا نور گر جے کی قربان کا۔
بُت۔ صورت شخص ج: هَيْكَلُ
هَكَمَ تَهْكِيمًا. فَلَانًا وَفِلَانًا
کسی کے لئے گیت گانا۔

تَهَكَّمَتِ. اَلْبَسَتْ وَنَحَوَهَا كَنُومٍ
وغیرہ کا ڈھنا تَهَكَّمَتْ فَلَانًا وَفِلَانًا
کسی کے ساتھ مسخری کرنا۔
زَيْدًا اِپے دے پے نیزہ مارنا۔ تَهَكَّمَتْ
عَلَى فَلَانٍ كَمَنْ يَرِيْبَتْ غَضَةً
ہونا۔ عَلَى الْاَمْرِ الْفَائِثِ اَفْسَوْسُ كَرَا
نام نہ ہونا۔

الْمَطَرُ مَا قَابِلِ بَرْدٍ اَوَّارْتِ بَارَشِ بَرَسَا
۔ فَلَانًا كَانَا۔ يَفْلَانُ كَمَنْ كَمَنْ
گانا۔ يَفْلَانُ كَمَنْ كَوْبِتِ يَادِرَا
الهَيْكَلُ شَرِيْرٌ غَيْرُ مَفِيْدٍ كَامٍ مِّنْ كَوْدِ پُرنے
والا۔

الْاَهْكَوْمَةُ طُغْمَا۔
المُسْتَهْكَمُ مُتَكَبِّرٌ۔
تَهَكَّنَ. عَلَى الْاَمْرِ الْفَائِثِ نَامُ مَرَا
ہا کا ہا مہا کا کا۔ کم عقل سمجھنا۔
الْاَهْكَاءُ۔ حیران لوگ۔


هَلَّ حَرْفُ اسْتِفْهَامٍ بِمَعْنَى اَرِيَا، جِيْے
هَلَّ طَلَعَ الْاَنْهَارُ كَمَا دَنَ تَكَلَّ اَيَا
اور یہ نسبت ایجاب کے استفہام کے
لئے مخصوص ہے مثلاً هَلَّ قَامَ
زَيْدًا کہہ سکتے ہیں لیکن هَلَّ لَمْ يَقُمْ
نہیں کہہ سکتے۔ اگر نفی سے استفہام
مقصود ہو تو حمزہ لاتے ہیں پھر ہل
ایسے اسم بھی نہیں آتا جس کے بعد
فعل ہو۔ مثلاً هَلَّ قَامَ زَيْدٌ
اور هَلَّ زَيْدٌ قَامَ کہنا درست ہے
لیکن هَلَّ زَيْدٌ قَامَ کہنا درست
نہیں۔ اسی طرح هَلَّ نہ جملہ شرط پر
آتا ہے نہ اس جملہ میں برائے حرف
تحقیق داخل ہو۔ مثلاً نَسِيتُ کہہ سکتے
هَلَّ اِنْ قَامَ زَيْدٌ لَقِيتُهُ۔ یا هَلَّ
اِنْ زَيْدًا قَامَ لَقِيتُهُ بخلاف
ہمزہ کے کیونکہ اس میں وسعت ہے نیز
هَلَّ مضارع پر داخل ہو کر اس کو
مستقبل کے لئے مخصوص کرتا ہے گویا
نہیں کہہ سکتے هَلَّ تَذْهَبُ اَلْاَنَ
هَلَّ (ن) هَلًا۔ الْمَطَرُ بَارَشَ
کا زور سے برسنا اِهْلَالُ نیا چاند
دیکھنا هَلَّ الشَّهْرُ قَرِيْ مَبِيْنَةٍ كَا
شروع ہونا۔ الرجل: خوش ہونا۔
چلانا۔

هَلَّ تَهْلِيْلًا۔ تَبِعَ بِرُحْنَا هَلَلُوْا
کہنا یا لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کہنا۔
هَلَّ الرَّجُلُ اَدْمَى كَابَزْدَلٍ هُونَا
بھگانا عَنْ قِيْدِنِهْ پیچھے بھگانا۔
عَنْ شَمَهْ گالی دینے سے کہنا
اَنْكَتِبُ كِتَابَ كَهْنَا۔

هَالًا هَلَالًا وَ مَهَالَةً۔ الْاَجِيْدُ
مزدور کو مہینہ کے لئے کوکر کہنا۔
اَهَلَّ۔ الْهَلَالُ چاند ظاہر ہونا۔
الشَّهْرُ ماہ قمری کا شروع ہونا۔

اَهَلَّ الْقَوْمُ الْهَلَالَ چاند دیکھتے
وقت لوگوں کا آواز کرنا الصَّبِيْ بچہ
کاروتے ہیں آواز بلند کرنا۔ الرجل:
کسی کا نیٹے چاند کی طرف نظر کرنا۔
الشَّيْفُ يَفْلَانُ تَلَوَارَ كَمَنْ كَوْنَا
الْعَطَشَانُ پیاسے کا تھوک جمع کرتے
کے لئے۔ زَبَانُ كَوْنَا لَوْسَ گانا۔
اللّٰهُ السَّحَابُ اَللّٰهُ كَا بَدَلِ سَے پانی
برسا۔ الشَّهْرُ مَبِيْنَةٍ كَا چاند دیکھنا
۔ الْمَدِيْنَةُ مَبِيْنَةٍ كَا اَوَّارْتِ سَے کہنا۔
فَلَانٌ يَذْكُرُ اللّٰهُ كَمَنْ نِعْمَتِ پَاکَر
یا عجیب چیز دیکھ کر اللہ کا ذکر مہینہ
آواز سے کرنا۔ اَهَلَّ بِالْيَمِيْنَةِ
عَلَى الذَّيْبَةِ دُوبیر اللہ کا نام لینا
اَهَلَّ۔ الْهَلَالُ نیا چاند نمودار ہونا
۔ الشَّهْرُ۔ نیا مہینہ شروع ہونا۔
تَهَكَّلَ۔ الْوَجْهَةُ اَذَى الْمَسِيْحَةِ
چہرے یا بادل کا چمکنا۔ فَلَانٌ
کسی کے چہرے کا خوشی سے دیکھنا۔
تَهَلَّلَتِ الْعَيْنُ۔ اَنَا كَمَنْ اَنَسُوْا
تَهَلَّلَتْ دُمُوعُهَا اَنَسُوْا کا ہونا۔
اَهَلَّ۔ الْمَطَرُ زَوْرَ سَے تَرَدُّ اَتْرَ بَارَشَ
برسنا۔ اَهْتَلَّ بِمَنْ تَهَلَّلَ۔
الرجل: ہنسنے میں ذات ظاہر کرنا۔
الْمَطَرُ بَارَشَ بَرَسَا۔
اِسْتَهَلَّ۔ آسمان کا پہلی بارش برساتا۔
۔ الْقَوْمُ الْهَلَالَ لوگوں کا ہلال
دیکھنا۔ الشَّهْرُ مَبِيْنَةٍ شروع ہونا
۔ الشَّهْرُ مَبِيْنَةٍ كَا نیا چاند دیکھنا۔
الْوَجْهَةُ: چہرے کا خوشی سے چمکنا۔
الصَّبِيْ بچہ کا پیدائش کے وقت
زور سے رونا۔ ہر برنے والا کا اپنی
آواز کو اونچی کرنا۔

اُسْتَهَلَّ۔ ہلال ظاہر ہونا تَلَوَارَ کالی جانا
اِهْلَالُ۔ نیا چاند۔ پہلی سے تیسری یا



خَلَسَ - الرَّجُلُ - دُبا ہوتا
 هَالَسَةً مَهْلَسَةً - سرگوشی کرنا -
 آہستہ آہستہ چلنا العَیْثُ - بات
 چھپانا اِلَى خَلَاثٍ - کسی سے کوئی
 بات چھپکے سے کہنا - اَلْمَرْصُ خَلَاثًا
 بیماری کا کسی کو گھلا دینا -
 اَلْهَالِیْسُ فَا - واحد (اَلْهَوَا لَیْسُ)
 دُبا - پتلے جسم والا -
 اَلْهَلَسُ - سِل کی بیماری
 اَلْهَلَسُ - مہ - بہت بھلائی - پتلا پن -
 لاغری - سِل کی بیماری -
 اَلْهَلَسُ - مَرَض سے کمزور لوگ کمزور لوگ
 اَلْمَهْلُوسُ مَفْع - رَجُلٌ مَهْلُوسٌ - اَلْعَقْلُ
 دَا اَلْمُهْتَكَسَهُ مَسْلُوبُ اَلْعَقْلِ -
 ظلام مہلِس - مدہم اندھیرا
 هَلَجَ (رِی) هَلَجًا - گھبرانا صفت
 (هَلَجٌ وَهْلُوعٌ) - بھوکا ہونا
 اَلْهَلَجُ - حریص -
 اَلْهَالِجُ - فَا - نَعَامٌ هَالِجٌ تِيزٌ رَقَارٌ -
 شتر مرغ - ج: هَوَالِجٌ -
 اَلْهَلِجُ - عَمَلِکین - مَسْکَمَد
 اَلْهَلَجُ مِم - (اَلْهَلَاغُ وَ اَلْهَلَعَانُ)
 رطائی میں بزدلی -
 اَلْمُهْلَعَةُ - جلدی گھبرانے والا -
 اَلْهَلُوعُ - گھبرانے والا - ڈرپوک -
 حریص - لاپچی مصیبتوں میں صبر نہ
 کرنے والا -
 اَلْهَلُوتُ - بیماری بھرم سخت بدن کا -
 بڑی داڑھی والا - بہت بالوں والا
 گھنی داڑھی - ابراؤد - دن جس میں
 سورج نہ نکلے - بہت بوڑھا آدمی -
 زیادہ پشیم والا اونٹ - جنگلی سور -
 بہت بوڑھا آدمی - چھوٹا -
 اَلْهَلُوفَةُ - بہت جھوٹ بولنے والا گھنی
 داڑھی - بڑھیا -


اَلْمُهْلُوتُ - بہت بالوں والا - بدخلق -
 هَلَقَ (رِی) هَلَقًا وَهَلَقَ - جلدی کرنا
 هَلَقَمَ - الشَّيْءُ حَبِيرًا نَكَلًا -
 اَلْمُهْلَقَامُ - مَرْمَا - لَمَا - شِیر - کشادہ باپوں
 والا اونٹ وغیرہ - (و اَلْمُهْلَقَمُ)
 بڑا سردار جو لوگوں کی دیتوں کو برداشت
 کرے -
 اَلْمُهْلَقَامُ وَ اَلْمُهْلَقَمُ وَ اَلْمُهْلَقَامَةُ
 وَ اَلْمُهْلَقَامَةُ وَ اَلْمُهْلَقَمُ پِیٹو - کھاؤ
 اَلْمُهْلَقَمُ قَوِی کثَر دِه باجھوں والا -
 بڑی عورت -
 هَلَكَ (رِی) هَلَاكَ وَ هَلُوكًا
 وَ هَلُوكًا وَ هَلُوكًا وَ هَلُوكًا
 وَ هَلُوكًا - فَنَا ہونا - مَرَا -
 (هَلَاكَ كَا) اَلْبَيْتُ وَ عَلَیْهِ
 حَرِیص ہونا لاپچی ہونا خواہشمند ہونا
 هَلَكَهُ وَ اَهْلَكَ - فَا کرنا - کھونا
 اَهْلَكَ الْمَالَ - مال بیچنا -
 تَهْلَكَ - فِي مَشِيَمٍ مَكَّ كَرَجِنَا -
 - فِي الْمَقَا وَ زِي رَگِیستان میں
 آوارہ پھرنا -
 تَهْلَكَ - عَلَى الْفَرَاشِ فَرَشِ پَرگنا -
 فِي مَشِيَمٍ مَكَّ كَرَجِنَا -
 عَلَى الشَّيْءِ كِی حَبِيرًا بہت حریص
 ہونا فِي الْاَمْرِ اَوِ الْعَدُوِّ
 کوشش کرنا -
 رَهْلَكَ وَ اَهْلَكَ - اپنی جان کو
 خطرہ میں ڈالنا -
 اِسْتَهْلَكَ مَلَا کرنا - اِسْتَهْلَكَ
 الْمَالَ مال خرچ کرنا - فِي الْاَمْرِ
 کوشش کرنا -
 اَلْهَالِثُ فَا - ج: هَلَكِي وَ هَلَكٌ وَ
 هَلَاكَ وَ هَوَالِثُ -
 اَلْهَالِثَةُ مَوْنَت - اَلْهَالِثُ نَفْسِ حَرِیص
 اَلْهَالِثِي نَوَار -

اَلْهَلُثُ وَ اَلْهَلُثُ - ہلاکت - کہتے ہیں
 لَا ذَهَبَ فَا مَا هَلَكَتْ وَ
 اَمَّا مَلَكٌ يَعْنِي مِی جَا کر رہوں گا خزاہ
 تَحْتَ مِی یَا تَحْتَهُ -
 اَلْهَالُوكُ سَكَمَا -
 اَلْمُهْلَكُ قَطْعُ کَ سال - واحد -
 (هَلَكَةُ) مردار کی لاش -
 پہاڑ کی چوٹی اور اس کے دامن کے درمیان
 ہلکی فضا - گرنیوالی چبوتر -
 اَلْهَلُثُ ہلاکت ہونے والا نفس -
 اَلْمُهْلَكَةُ ہلاکت -
 اَلْمُهْلَكَةُ - ہلاکت - ج: اَهْلَكَاتُ
 اَلْمُهْلَكَةُ فَرَاؤُ رَا سَتَ گم کردہ لوگ -
 اَلْمُهْلَكُونَ اَلْمُهْلَكُونَ تَحْطَرُ زَمِیْنِ
 وہ زمین میں پیر سے بارش نہ ہوتی ہو
 اَلْمُهْلَكُ - آوارہ عورت ج: اَهْلَكَتُ
 اَلْمُهْلَكَةُ ہر وہ شے جس کا انجام ہلاکت ہو
 اَلْمُهْلَكَةُ - دوسروں پر گزارہ کرنے
 والا اَلْمُهْلَكَةُ - چارہ کی تلاش
 میں راہ گم کردہ لوگ -
 اَلْمُهْلَكَةُ وَ اَلْمُهْلَكَةُ وَ اَلْمُهْلَكَةُ
 ہلاکت کی جگہ - رگِیستان - بیابان ج:
 قَهْلَكَ - اَلْمُهْلَكَةُ رَا تِیَالِ -
 طَبَقٌ مُسْتَهْلَكٌ اَلْمُورِدُ
 دشوار گزار راستہ -
 اَهْلَكَ - بَقْلَانِ - مِلَانَا - پکھانا
 اَهْلَكَ وَ صِلَا
 اَلْهَلَمُ پہاڑی ہرنیاں -
 هَلَمَ جِلَ آؤ - لازم کبھی مستعدی جیلے
 هَلَمَ شَرِہَا آؤ کُہ اپنے گواہوں
 کو حاضر کرو - مَوْنَت: هَلَكِي تَنِيہ:
 هَلَمًا ج: هَلَمُوا وَ هَلَمْتُمْ
 اَلْمُهْلَاةُ - بچنے کے گشت و پرست سے
 تیار کیا ہوا کھانا - سباج کا روغن سے

صاف کردہ شوربا
الْهَلِيمُ حَيْثُ وَالَا الْهَيْكَمَانِ وَ
الْهَيْكَمَانِ وَالْهَيْكَمَانِ بَيْتِ حَيْرِ
هَلْمَلِ. النَّسَاجُ الثَّوْبُ:
کپڑے کے باریک بُنا۔ الثَّوْبُ:
گلے میں آواز پھرانا۔ الشَّعْرُ: شعر
عمدہ بنانا۔ اصلاح کرنے کے بغیر
شعر مینا بنے ویسا ہی کہو دنیا۔
الرَّجُلُ فِي الْأَمْرِ: انتظار کرنا۔ دیر
کرنا۔ الطَّحِيْنُ: آٹا پھانسا۔
عَنِ الشَّيْءِ وَالْإِسْ: بفرسہ
گھوڑے کے ہل کہہ کر ڈانٹنا هَلْمَلِ
يُنَادِيكَ قَرِيبٌ بِهٖ كَدَّهٖ اُس کو جا کپڑا
الْمَلَا هَلْ وَالْمَلَا هَلْ وَالْمَلَا هَلْ
عمدہ شعر یا باریک کپڑا
الْمَلَا هَلْ بَيْتِ اُدْرَا صَاف پانی۔
وَالْمَلَا هَلْ: بُری بناوٹ کا کپڑا
الْمَلَا هَلْ بَرْفِ. هَالَا هَلْ مَلَا لَاقَةً صَبْرًا
هَلَا۔ گھوڑے کو ڈانٹنے کی آواز
الْمَلِيُونُ ایک قسم کی سبزی هَالُوْنُ
واحد هَلِيُونَةٌ۔
هَمَّتْ دَن، هَمَّتَا وَ مَهْمَةٌ
الْأَمْرُ فُلَانًا: بے چین کرنا غم گین کرنا
السَّقَمُ جِسْمِ بيماری کا جسم کو
گھلا دینا۔ مَلَانُ الشَّحْمِ
چربی پگھلانا۔ السَّقَمُ التَّلْبِ بَرْفِ
پگھلانا۔ اللَّبَنُ دودھ دہنا
(هَمَّتَا) بالشَّيْءِ: ارادہ کرنا
قصد کرنا۔
هَمَّتْ دَن، هُمُومَةٌ وَ هَمَامَةٌ
الرَّجُلُ: بہت بوڑھا ہونا۔
هَمَّتْ دَن، هَمَّتَا وَ هَمِمْتَا
خَشَّاشُ الْأَرْضِ زین کے کپڑے
کوٹوں کا رنگین۔
هَمَمْتُ - الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِ الْيَمِي

مان کا بچہ کو لوری سے سلانا جو میں نکانا
أَهَمَّتْ - السَّيِّحَةُ بہت بوڑھا ہونا
الْأَمْرُ فُلَانًا: بے قرار کرنا۔ رنجیدہ
کرنا۔ غم میں ڈالنا۔
تَهَمَّتْ - الشَّيْءُ: تلاش کرنا۔ سرے سے نہیں
نکالنا۔ نکر مند ہونا۔
انْهَمَّتْ السَّيِّحَةُ: بہت بوڑھا ہونا۔
الشَّحْمُ أَوِ الْبَزْدُ: چربی یا دالے
کا پگھلنا۔ گھلنا۔ الْعَوْقُ فِي حَبِيْبِيْهِ
سینہ کا پیشانی پر ہونا۔
انْهَمَّتْ - الْيَقُوْلُ: ترک کاریوں کا ہاتھ
میں پکایا جانا۔
انْهَمَّتْ الرَّجُلُ: غم گین ہونا۔
لَمَّا يَأْمُرُ: اپنے کام کے انتظام
میں بہت محنت کرنا۔
انْهَمَّتْ - يَأْمُرُ فِي الْأَمْرِ:
کسی امر میں مشغول ہونے کی خواہش
کرنا۔ متوجہ کرنا۔
الْهَمَامَةُ: ہرزہ ریل کپڑا اج: هَمَامَةٌ
جُون۔
الْهَمَامَةُ: بلند بہت بادشاہ۔ بہادر اور
سختی سردار۔ شیر۔ پگھلا ہوا۔ برف
یا چربی ج: هَمَامَةٌ
الْهَمَّ غَمَّ ج: هَمُّوْهُ: ارادہ تویر
ضروری بات جس کے کرنے کا انسان فکر
مند ہو۔
هَذَا رَجُلٌ هَمَمْتُ مِنْ رَجُلٍ
یہ شخص تمہارے لئے فلاں شخص سے
کافی ہے هَذَا رَجُلٌ هَمَّ
صاحب اور بلند خیال آدمی۔
الْهَمَّ بہت بوڑھا آدمی ج: اَهْمَامُ
دُلا تیل۔ قَدَحٌ هَمٌّ دُلا ہوا
پُرانا پیالہ۔
الْهَمَامُ کسی چیز کا ارادہ کہے اس کو کر
گزرنے والا خینچوڑ

الْهَمَّةُ وَالْهَمَّةُ هَمَّتْ - قصد ارادہ
خواستہ۔ ابتدائی ارادہ بخت ارادہ
بَعِيدُ الْهَمَّةِ بلند حوصلہ آدمی۔
ج: هَمَّ - سَمَاءٌ هَمُّوْهُ
بہت بارش برسانے والا بادل۔
بَعْدُ هَمُّوْهُ بہت پانی والا کنواں
تَا قَتَّ هَمُّوْهُ خوش رفتار آدمی۔
الْهَمِيمُ نرم رفتاری۔ سرائت۔ بکلی بارش
الْهَمِيمَةُ: چھوٹی چھوٹی بوندوں کی بکلی
بارش ج: هَمَامَةٌ
الْهَمِيمُ بکلی بارش
الْمُهْمَةُ: شدید معاملہ مشغول کرنے
والا معاملہ۔ ج: مَهَامَةٌ
الْمُهْمَةُ - مَوْتُ الْمُهْمُ ج: مَهْمَاتُ
الْمُهْمَاتُ اہم امور لا مَهْمَاتِيْ بَدَا إِلَا
میں اس کے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔
الْمُهْمُوْهُ مَفْعٌ: رنجیدہ، ننگین، پگھلا ہوا
هَمَّاءُ يَهْمَاءُ هَمَاءٌ - الثَّوْبُ:
کپڑا کو کھینچ کر پھاڑنا۔ پرانا کرنا۔
أَهْمَاءُ - الثَّوْبُ: کپڑے کو پھاڑنا۔ پُرانا کپڑا
أَهْمَاءُ - الثَّوْبُ: کپڑے کا پھینا۔ پرانا ہونا
الْهَمُّ پچھا ہوا پُرانا کپڑا ج: اَهْمَامُ
هَمَّتْ دَن، هَمَّتَا - الشَّرِيْهُ جَلْبَانِيْ
والا ہونا۔
أَهَمَّتْ - الْكَلَامُ اَوِ الْفِرْحَةُ
کلام یا سہمی چھپانا۔
هَمَجَتْ دَن، هَمَجَا - الْإِلْبِسُ
مِنْ الْمَاءِ اونٹوں کا ایک بار پانی
پی کر سیراب ہونا۔ صفت، (کھوجہ)
(- هَمَجَا) مہجکا ہونا۔
أَهْمَجَ الْفَرَسُ: گھوڑے کا پوری
رفتار سے دوڑنا۔ الشَّيْءُ: چھپانا
أَهْمَجَ الرَّجُلُ: کمزور ہونا۔
وَجْهٌ چہرہ پژمردہ ہونا۔
أَهْمَجَ - فَا - وَهْ فَوْجٌ جس کا کوئی افسر ہو



وہ ریور جس کا چروانا نہ ہو۔
ہَمَّجٌ هَامِجٌ رُذِیْلٌ لُؤْکٌ۔

الہَمَّجُ - بھبھک - بدانتظامی - ایک قسم
کا مچھر - چھوٹی مکھیاں - ڈوبی بکریاں
واحد (ہَمَّجَةٌ) بیوقوف لوگ۔
عامۃ الناس: جہ آہمما جہ
الہَمَّیجِ مِنَ الطَّبَاہِ جو ان خوبصورت
جسم کا ہرن - مِنَ الزَّجَالِ پتلے
پرٹ والا۔

هَمَدَاتٌ (ن) هَمُوْدًا - النَّارُ:
آگ کا بجھنا - مُتَحَدِّا ہونا۔

هَمَدَ الْقَوْمُ مَنَا - صفت (ہَامِدٌ)
دھمڈ دھمید، هَمَدَاتُ
أَصْوَاتُهُمْ آواذوں کا بند ہونا۔

هَمَدَاتٌ (ن) هَمْدًا وَهَمْدًا - الثَّرْبُ:
کپڑے کا عرصہ تک لپٹے لپٹے تھوں پر

سے بھٹ جانا - صفت (ہَامِدٌ)
جہ: هَمْدٌ - هَمَدَاتُ الْأَرْضِ

زمین کا بنجر ہونا - بے آب و گیاہ ہونا
هَمْدًا عَجَبَانًا۔

أَهَمَدَ فِي الْمَكَانِ: اقا - نہ کرنا۔
فِي الْيَسْرِ: حدی جینا - الْكَلْبُ:

تیز و درڑنا - الْقَوْمُ فِي الطَّعَامِ کھانے
پر ٹوٹ پڑنا - أَهَمَدَاتُ الزَّيْجِ

ہوا کا ساکن ہونا - أَهَمَدُ فُلَانٌ
تکلیفوں میں چپ رہنا - أَصْوَاتُ

الْقَوْمِ - آواذوں کا بلند ہونا۔
خاموش ہونا - الْقَوُطُ الْأَرْضِ:

قحط کا زمین کی نباتات کو سکھا دینا۔
الْهَامِدُ فَا - متغیر بوسیدہ سیاہ خشک

نباتات و درخت - بنجر جگہ - جہ:
هَوَامِدٌ۔

الْهَمَادِ قَاتِ تِيزٍ رِقَاتِ رِی - تیز رفتاری
یا اونٹنی - گرمی یا بارش کی شدت

الْهَمْدُ اِثْنٌ - بہت بولنے والا۔

هَمْدَانٌ - شمر کا باشندہ - هَوْدٌ
یَمَشِیْ هَمْدًا اِنْبِثَا وہ طرح طرح

کی چال چلتا ہے۔
هَمْدَرٌ (ن) هَمْدًا - الْمَاءُ: پانی گرانا

الْمَاءُ: پانی کا گرنا هَمْدَرٌ مَافِی
الْمَصْرَعِ قُصْنٌ کاسب دودھ دودھ

لینا - الْكَلَامُ وَفِی الْكَلَامِ بہت
بولنا - الْفَرْسُ الْأَرْضُ: گھوڑے کا

زمین کو ٹاپوں سے زور سے مارنا۔
- لِفُلَانٍ مِنْ كَالِهِ - دینا - الْبِنَاءُ:

عمارت ڈھانا۔
هَاقَرَهُمَا هَمَّةٌ: الشَّيْءُ بکل لے لینا۔

اِنْهَمَرَ الْمَاءُ: پانی کا بٹنا - بٹنا
- الشَّجَرَةُ: درخت کا بھڑے ہوئے

پتوں والا ہونا - الْبِنَاءُ: عمارت
کا گرنا۔

اَهْتَمَرَ - الْفَرْسُ: گھوڑے کا دوڑنا۔
الْهَامِرُ - فَا - بہت برسنے والا بادل۔

الْهَمِرُ - موطا آدمی - رَمْلٌ هَامِدٌ
بہت ریت۔

الْهَمَّةُ: بارش کی بوجھاڑ - غصہ سے
بھری ہوئی گھنٹگو۔

الْهَمَارُ - مِنَ السَّحَابِ بہت بارش برسنے
والا بادل - مِنَ الرِّجَالِ: بہت

کبواسی - رُزَا۔
الْهَمِيرُ وَالْهَمَارُ بہت بڑھی عورت

الْمِھَمَرَةُ الْمِھْمَارُ - بہت کبواسی بڑا
الْمِھْمَارُ ماٹوں کی بہت ضیافت کرنے

والا۔
الْمِھْمَرُ: بہت تک تک کرنے والا۔

هَمْرَجٌ - عَلَیْهِ الْخَبَرُ گڑبڑ - خربڑ
کرنا۔

الْهَمْرَجَةُ - خبر کی گڑبڑی - اخلاط -
خفت - سرعت - لوگوں کا شور۔

باطل - الْهَمْرَجَاتُ لوگوں کا شور

تَهْمَرُشْ - لوگوں کا حرکت میں آنا - اسم:
(الْمَهْمَرُشْ)

الْمَهْمَرُشْ - حرکت۔
الْمَهْمَرُشْ - بڑھی عورت - بہت دودھ

دالی اونٹنی۔
هَمْرَكَةٌ - (ن) هَمْرًا چٹکی لینا

دبانہ - چھوٹا - بڑھانا - مارنا - دانتوں
سے کاٹنا - غیبت کرنا - صفت:

(هَمْرَا وَهَمْرَكَةٌ) توڑنا۔
هَمْرَ الشَّيْطَانِ الْإِنْسَانِ -

شیطان کا انسان کے دل میں دوسرے
ڈالنا - بِرِ الْأَرْضِ: زمین پر بچھانا

- الْفَرْسُ: گھوڑے کے ہمیز
چھوٹا - الْعِنَبُ: انگور بچھونا۔

الْكَلِمَةُ أَوِ الْحَرْفُ کلمہ یا حرف پر
ہمزہ لگانا یا ہمزہ کے ساتھ بولنا۔

اِنْهَمَرَتْ - الْكَلِمَةُ أَوِ الْحَرْفُ
ہمزہ کی علامت والا ہونا یا ہمزہ کے

ساتھ پڑھا جانا۔
الْهَامِرُ - فَا - بڑا عیب گیر جہ:

هَمَارٌ وَهَامِرٌ ذُنُ
الْمَهْمَرُ - مِمَّ هَمْرُ الشَّيْطَانِ جنوں

الْمَهْمَرَةُ حرف ہمزہ - جہ: هَمْرَاتُ
هَمْرَاتُ الشَّيْطَانِ -

شیطانی دوسرے۔
الْمَهْمَرَةُ: بکتہ چین - بہت عیب گیر۔

الْمَهْمَارُ - عیب گیر - طعن و تشنیع کرنے والا
رَجُلٌ هَمِيرٌ أَوْ هَمَارٌ -

سمجھ دار تیز فہم آدمی۔
الْمِھْمَرُ وَالْمِھْمَارُ ہمیز - ابط - جہ:

مَھَامِرٌ وَ مَھَامِرٌ -
الْمِھْمَرَةُ - چاک وہ لالھی یا لڈا

جس کے سرے پر لہے کی کیل لگی ہو۔
هَمَسَ رَضَ هَمَسًا الصَّوْتُ

آواز کو دھیمہ کرنا - اِلَى بَحْدِش:

آہستہ آہستہ باتیں کرنا۔ الحَبَبُ: اکوڑ
سُجُودنا۔ الشَّيْءُ: توڑنا۔ الطَّعَامُ:
منہ بند کر کے چبانا۔ الشَّيْطَانُ:
شیطان کا دوسرہ ڈالنا۔ بِالْقَدَمِ:
قدم آہستہ رکھنا۔ الرَّجُلُ: رات
میں بغیر سستی کے چلنا۔

هَامَسَتْ مَهَا مَسَةً آہستہ کلام کرنا
تَهَامَسَا آہستہ آہستہ کلام کرنا۔
الْمُهْمَسُ مصر۔ آہستہ آواز۔ آہستہ
الْمُهْمَسُ شير۔

الْمُهْمُسُ رات میں چلنے والا بشر۔ آہستہ
قدم چلنے والا شير۔

الْمُهْمِسُ اونٹ کے پاؤں کی آہستہ
الْمُهْمِسُ آہستہ بولا ہوا لفظ۔
الْمُهْمِسُ زمر حروف
بن کا مجموعہ ہے حَتْمًا شَتْمًا
فَسَكَتَ۔

هَمَسَتْ (ن) هَمْسًا۔ الشَّيْءُ جمع کرنا
— فُلَانًا: کسی کو دانت سے کاٹنا۔

هَمَسَتْ (ن) هَمْسًا و هَمِشَ
(ن) هَمَسَتْ الرَّجُلُ: بیفاؤہ
بہت بولنا۔ اور حرکت میں آنا۔ الْوَكْدُ:
ٹڈیوں کا ظاہر ہونے کے لئے حرکت کرنا
هَامَسَتْ مَهَا مَسَةً جلدی کرنا۔

تَهَمَّشَ۔ مُنْطَبِطُ الْبَيْتِ۔ کنویں کی سیر
یا سوت کا جاری ہونا۔ الشَّيْءُ: چیز
کا کھایا جانا۔

تَهَامَسَ الْقَوْمُ: گردہ کا مخلوط ہونا۔
إِهْتَمَّشَ الْقَوْمُ: مخلوط ہونا اور آگے
پہنچے ہونا۔ إِهْتَمَّشْتَ الدَّايَةَ
آہستہ چلنا۔

إِهْتَمَّشْتُ فَا۔ کتاب کا حاشیہ۔
الْمُهْمَشُ مصر کھانے کی تیزی
الْمُهْمَشُ رنگبیلوں سے پھرتی سے کام کرنے والا
هَمَّطَ (ن) هَمْطًا۔ الرَّجُلُ:

ظلم کرنا۔ بولنے اور کھانے میں پروا نہ کرنا
الشَّيْءُ: چیز بے اندازہ لینا۔ الْمَالُ:
مال زبردستی لینا۔

تَهَمَّطَ وَ أَهْتَمَّطَ۔ الْمَالُ:
مال زبردستی لینا۔ إِهْتَمَّطَ
عَرْضُ فُلَانٍ کسی کی بے عزتی کرنا۔ کسی کو
گالی دینا۔ الرَّبُّ الشَّاةُ: بھیڑیے
کا بکری کو کپڑ لینا۔
الْمُهْمَاطُ: ظالم۔

هَمَعَتْ (ن) هَمْعًا وَ هَمَعًا
و هُمُوعًا وَ هَمَعَانًا وَ هَمَعَانًا لَعِينُ:
آنکھ کا آنسو بہانا هَمَعُ الْيَطْلُ
عَلَى الشَّجَرَةِ: درخت پر شبنم کا
گرنا هَمَعٌ دَاسِدٌ سر زخمی کرنا۔
أَهْمَعٌ۔ السَّامِعُ وَ نَحْوُهُ۔ آنسو وغیرہ
کا بہنا۔ الْيَطْلُ شبنم کرنا۔

تَهَمَّعَ الرَّجُلُ: رونے کا بہا نہ کرنا۔
الرَّمْعُ وَ نَحْوُهُ۔ آنسو وغیرہ کا بہنا
الْهَامِعَةُ مَوْنَتُ الْهَامِخِ ج:
هَوَامِخٌ۔ مَحَابِّطٌ هَمِخٌ۔
برسنے والا بادل۔

ہمیشہ آنسو بہا نیوالی آنکھ۔

الْهَمُوعُ بہنے والا
الْهَمِيعُ۔ ناگہانی موت
هَمَخَ (ن) هَمَخًا دَاسِدٌ سر پھوڑنا
إِهْتَمَّعَتْ۔ الرُّطْبَةُ ترکھور کا پھٹ
جانا الْفَرْحَةُ زخم کا تر ہونا۔

الْهَمِيعُ موت۔ اچانک موت
هَمَّكَ (ن) هَمَكًا۔ فِي الْأَمْرِ
کسی کام کے لئے کسی کو اُکسانا۔
تَهَمَّكَ وَ إِهْتَمَّكَ۔ فِي الْأَمْرِ
کسی کام میں بہت مشغول ہونا۔

منہمک ہونا۔

إِهْمَاكَ إِهْمِيكَ: گالیاں۔ الرَّجُلُ:
کسی کا غصہ سے بھر جانا۔ صفت:
مُهْمَمٌ۔

هَمَّكَتْ (ن) هَمَّكَتْ وَ هَمَّكَتْ وَ
هَمَّكَتْ وَ هَمَّكَتْ۔ عَيْنُهُ۔ آنکھ کا آنسو بہانا
السَّمَاءُ: آسمان کا بارش آہستہ آہستہ
برسنا۔

هَمَّكَتْ (ن) هَمَّكَتْ وَ هَمَّكَتْ وَ
أُونُطُ کا بغیر چرواہے کے دن رات
آزاد پھرنا۔ صفت: هَامِلٌ ج:
هَوَامِلٌ وَ هَمُولَةٌ وَ هَامِلَةٌ۔
وَهَمَلٌ وَ هَمَلٌ وَ هَمَلٌ وَ هَمَلٌ
أَهْمَلَهُ: قصداً یا بھولے سے چھوڑ دینا۔
أَهْمَلُ أَهْمًا: کام کو بغیر محنت چھوڑنا
الْحَرْفُ: حرف پر نقطہ نہ لگانا۔

إِهْمَلْتُ۔ عَيْنُهُ۔ آنکھ کا آنسو بہانا۔
السَّمَاءُ: آسمان کا پیہم بارش برسنا۔
الْهَمَلُ بیوند لگا کپڑا۔

الْهَمَلُ۔ مِنْ الْأَبْلِ۔ بغیر چرواہے کے
رات و دن آزاد چھوڑے ہوئے اونٹ
اُتارا ہوا چھلکا۔ بے روک بہنے والا
پانی۔

الْهَمَلُ۔ چھوٹا گھڑا

الْهَمَلُ بڑی عمر والا

الْهَمَلُ۔ نرم۔ ویران زمین

الْهَمَالِيْلُ۔ بقیہ چارہ۔ چھٹا ہوا کپڑا

الْمُهْمَلُ۔ مفعول الكلام: غیر مشتمل کلام

مِنْ الْحُرُوفِ۔ بغیر نقطہ کے حرف۔

هَمَلَجَ هَمَلَجَةً۔ الْبَزْدُ وَ ج۔

نرم اور تیز چال چلنے والا ٹٹو۔

الْهَمَلَا ج۔ اچھی چال چلنے والا ٹٹو۔

ج: هَمَا لِيَج۔

الْمَلَجُ بے فنا۔ تیز رفتارا اونٹ۔ مَوْنَتُ
هَمْلَعَةٍ۔

هَمَلَقَ هَمْلَقَةً۔ جلدی کرنا۔

هَمَّهَمَ هَمَّهَمَةً۔ آہستہ بولنا۔

غم کی وجہ سے آواز کو سینہ میں پھرا نا
— الرَّعْدُ: بادل کا گرجنا۔

الْمَهْمَامَةُ - بهادر سخی، سردار، شیر۔
الْمَهْمَامَةُ وَالْمَهْمُومَةُ -
اونٹوں کا بڑا گله۔

هَمْهَامٍ - (اسم فعل) کچھ باقی نہیں رہا۔
الْمَهْمَامَةُ مِم - موٹی آواز ج: هَمَاهِمُ
الْمَهْمُومُ وَالْمَهْمُومُ شِير -
هَمَاهِمُ هَمُومُ هَمُومًا - الْمَاءُ أَوْ
الْدَمُ مِمَّ مَعْنَى هَمِي يَهْمِي
هَمِي يَهْمِي هَمِيًا وَهَمِيًا وَ
هَمِيَانًا الْمَاءُ أَوِ الدَّمُ مِمَّ
پانی یا آنسو کا کثرت سے بہنا۔
هَمَتِ الْعَيْنُ أَكْهَكَ أَنْسُوبَانَا
- الْمَا شَيْبَةُ مَوْشِي كَ بِنْتِ كَمْ
لئے ادھر ادھر پھیل جانا۔ (هَمِيًا)
الشئ بگڑنا۔ ضائع ہونا۔

الْهَامِيَّةُ اسم فاعل يَمْشِي - ج:
هَوَامٍ - هَوَامِي الْإِسْلِ
چراگاہ کے گم شدہ اونٹ۔
هَمَا يُؤْن - ایک قسم کا خیانی پرندہ جس
کے بارے میں خیال ہے کہ جس کے یہ
سر پر سایہ فگن ہو جائے۔ وہ اعلیٰ مرتبہ
پر پہنچتا ہے۔ بادشاہ۔

الْهَمِيَانُ تھیل جو کرے باندھی جاتی ہے
اور اس میں نقدی وغیرہ رکھی جاتی ہے
ج: هَمَا يَنْ -

هَتَّ رَضَ هَتًّا وَهَتِيًّا رَوْنَا -
إِلَيْهِ - آرزو مند ہونا۔
أَهَتَّ - الْجَلَّ - اونٹ کو قوی کرنا۔

صفت مفعولی:
الْهَاتَّةُ وَالْهَاتَّةُ أَكْمَحُ كِي تَبْلِي كِي نِيچے
کی چربی ماسیدہ ہاتھ اس میں
کوئی خیر نہیں۔

الْهَاتَّةُ رَدْنِ وَالِي عَوْرَت
هَتًّا مَكَانَ بَعِيدَ كِي لِي اِثْرَہ -
وہاں - اُس جگہ۔

هَنَاءٌ - يَهْنُوهُ وَيَهْنُهُ هَنَاءٌ
كَلَامًا - هَنَاءٌ فَلَا نَا دِينَا -

- الْأَبْلُ: اونٹ پر قطران ملنا۔
الرَّجُلُ: کسی کی مدد کرنا۔

هَنَاءٌ يَهْنِي وَيَهْنَاءُ وَيَهْنُوهُ
هِنَاءٌ وَهَنَاءٌ وَهَنَاءٌ -
الطَّعَامُ الرَّجُلُ وَلِلرَّجُلِ
خوداک کا خوش گوار ہونا۔

هَنَاءٌ تَنْبِيهِ الْعَاقِيَةِ صَحْتِ نِي
اس کو میرے لئے خوشگوار کر دیا۔

هَنَاءٌ كَهْنَاءٌ هَنَاءٌ يَالَا مُرَد
کسی سے لیہنئٹٹ کرنا۔

(- هَنَاءٌ وَهْنَاءٌ وَهْنَاءٌ)
اِذَا كَامَ: کھانا درست کرنا۔ تیار کرنا

هَتِي (ر) هَنَاءٌ وَهْنَاءٌ - يَمْ
خوش ہونا۔ الطَّعَامُ کھانے کو مزے

دار پانا۔
هَنُوَّ يَهْنُوهُ هَنَاءَةً وَهْنَاءَةً
وَهْنَاءٌ بغير رَجٍّ وَشَقَتْ كِي

حاصل ہونا۔
هَتَّا تَهْنِيَاءٌ وَتَهْنِيَّةٌ - بَكْنَا
مبارک باد دینا۔

أَهْنَاءٌ أَهْنَاءٌ دِينَا
أَهْنَاءٌ تَهْنُوْءًا - بِمُ خُوش ہونا۔

بِالطَّعَامِ: کھانے سے مزہ لینا۔
لذت حاصل کرنا۔

أَهْتَنَاءٌ أَهْتَنَاءً مَالًا: مال درست
کرنا۔

أَسْتَهْنَاءُ اسْتَهْنَاءً مَدَّ جَانِبًا عَطِي
ماتن۔ الطَّعَامُ کھانے کو خوشگوار

سمجھنا۔
الْمَعَانِي خَاوِمُ
الْمَعَانِي: تارکول - کھجوروں کا گچھا۔

الْمَعْنُ تَارَكُولُ كَالْمَلَا - عَطِيہ - رات کا
ایک حصہ۔

الْهَنِي خُوش گوار۔ بلا مشقت۔ دستیاب
شدہ۔ أَكَلْتُهُ هَنِيئًا مِیں نِي

اس کو بلا کسی مشقت کے کھا لیا۔
هَنِيئًا لَكْ يَرْ تَهَارِي لِي نِي مِشَقَتِ

کے ہے۔
الْمَهْنَاءُ بلا مشقت ملنے والی چیز۔

هَنْبَتٌ كَهَنْبَتَةٌ - الرَّجُلُ: آدمی
کا ڈھیل ہونا۔ سست ہونا۔

الْمَهْنَبَةُ مشكل كام۔ بات میں گڑبڑ
ج: هَنَابِثُ

الْمَهَابِثُ مصائب۔ مخلوط خبریں۔
الْمَهْبَذَةُ سخت کام ج: هَنَابِثُ

الْمَهَابِثُ رُبَّ كِي بَعْدَ بِنْدِئِيَةِ وَاحِد
هَنُورَةٍ - الْمَهْبَذَةُ: بچو کا بچہ۔

الْمَهْبَذَةُ وَالْمَهْبَذَةُ وَالْمَهْبَذَةُ
الْمَهْبَذَةُ كَدِي۔

الْمَهْبَذَةُ گھوڑا۔ روی چڑا یا اس کے
المرات

الْمَهْبَذَةُ رِيْتِ كَالْبَنْدِ مِيلَہ -
هَنْبَسٌ وَتَهْنَبَسٌ خَبْرُوں كِي تَلِش

میں ہونا
هَنْبَسٌ - الرَّجُلُ: بھوکا ہونا

الْعَجَابُ - غبار کا بہت ہونا اور
اُڑنا۔

الْمَهْنَبَةُ خَفِيفُ سِي حَرَكَتِ سِي اُڑنے
والی مٹی۔ بے وقوف بدکار عورت

شَدَتِ كِي مَحْبُوك - شِير -
هَنْبَلُ الرَّجُلِ: لنگڑا ہونا اور بچو کی

چال چلنا۔
هَنْبَلٌ - فِي اُخْرَى كَامِ مِیں سستی کرنا۔

تَهْنَبَجٌ - الْفَصِيلُ اونٹ کے بچہ
کا ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا۔

هَنْبَلُ الرَّجُلِ: اُتو کی طرح چلنا۔
فِي اُخْرَى كَامِ مِیں کڑتا ہی کرنا۔ غلاما
کسی کو بڑی گالی دینا۔ دَیْسَ گالی۔

برداشت کرنا۔ السیف: تلوار تیز
کرنا۔ مَا هَتَدَ عَنِ الْأَمْرِ کام سے پیچھے

نہ ہٹنا۔
هَتَدَ تَمَامًا۔ البراءة عورت کا کسی کا ناز
نخرہ سے اپنا عاشق بنانا هَتَدَتِ
يَقْبَلِيْمُ اُس نے اُس کے دل کو بٹھا
لیا۔

هِنْدًا دھندلے سوا سوسے زائد
اذنوں کا ریلوڈ۔ ج: اَهْنَدُ وَ

اَهْنَادُ دھنڈ۔ هِنْدًا عورت کا نام
بچہ عورتوں کے لئے علم جس کے طور

پر استعمال ہونے لگا جس طرح مردوں
کے لئے زید و عمرو وغیرہ۔ ج:

هِنْدُود و هِنْدَات و الِهِنْدُ۔
ہندوستانی یا بنگ ہندوستان نسبت

کے لئے هِنْدِي ج: هِنْدُود
امریکہ کے اصلی باشندوں کو بھی هِنْدُود

کہتے ہیں۔ لَقِيَ هِنْدًا الْاَحَامِس
یعنی وہ مر گیا۔

هِنْدُ وَاِثِي وَاِثِي هِنْدُ وَاِثِي ہند کی
جانب منسوب۔ سَيَفُ هِنْدُ وَاِثِي

ہندوستانی تلوار۔
الْاَهَانِدُ وَالْمَنَادِلُ ہندوستانی لوگ

المُهَنْدُ ہندوستانی لوہے کی تلوار
الِهِنْدَب و الِهِنْدَبَاء و الِهِنْدَبَاءُ

والِهِنْدَبَاءُ کاس۔
الِهِنْدُ آاز۔ حد و قیاس۔

هِنْدَ آرَةُ الْخِيَاط۔ درزی کاگز
المُهَنْدَر۔ انجینئر۔

هِنْدَسِي۔ هِنْدَسِيَّة عمارت کا
اندازہ کرنا اور خاکہ کھینچنا۔

الِهِنْدِي مِن الرِّجَالِ
دورانہ پیش۔ سترہ کار۔ ماہر
هِنْدُوسِ الْأَمْرِ کام کا جاننے والا
ج: هِنْدَا سَتَا

المُهَنْدِسُ انجینئر۔ جامیڑی کا عالم
هِنْدَا م۔ الشیء تناسب سے ترتیب

دینا۔ مضبوط کرنا۔ العود۔
وغیرہ۔ مکرڑی کو آماز پر درست کرنا

الِهِنْدُ آاز۔ قد کی خوبصورتی و اعتدال
هِنْدَعَرَفَ هِنْدَعَا۔ الشیء چیز کو

موڑنا۔ دہرا کرنا۔ لِقْلَقَانِ کسی کا
مطیع ہونا۔ صفت: هَارَفَعَج:

هِنْدَعَرَسَ هِنْدَعَا۔ جھکی ہوئی گردن
والا ہونا۔ صفت: (اَهْنَعُ)

اسْتَهْنَع۔ الرجل: جواب نہ دے سنا
الِهِنْدَاع۔ ایک قسم کی بیماری جو انسان

کی گردن میں پیدا ہوتی ہے۔
الِهِنْدَع۔ تَدَا جَبَاوَد۔ اونٹ کی گردن

کا جھکاؤ۔
الِهِنْدَاعُ مَوْنُ الْاَهْنَع۔

لَعَامَةً هِنْدَاعُ بچیہ گردن کا
شتر مرغ اَحْمَةً هِنْدَاعُ پھول ٹیلہ

الِهِنْدَعَةُ۔ اونٹ کی گردن پر داغ کا
نشان۔ چاند کی چھٹی منزل یا پانچ

ستاروں کا نام جو جزائ کی بائیں
جانب واقع ہیں۔

الْاَهْنَع۔ جھکی ہوئی گردن یا جھکے ہوئے
قد والا۔ زمین پر دائیں بائیں مائل

ہونے والا۔
هِنْدَفَ۔ الرجل۔ جلدی کرنا

هَا كَفْتُ مَهَا نَفَةً وَهِنَا فَا۔
المَزَاةُ خَاصَّةٌ تَحْقِيرُ مِيزَانِ دَا

میں مہنا هِنْدَفَ فَلَا تَصَاحِبُهُ
ساتھی کے ساتھ کھینا۔

اَهْنَفَ۔ تَحْقِيرُ آمِيزِ مَنِ مَنِ تَحْقِيرُ کرنا
الرجل: جلدی کرنا۔ الصبی:
رونے کے لئے تیار ہونا۔

اَهْنَفَتِ۔ المَرْأَةُ بمعنى هَا كَفْتُ۔
تَحَا كَفْتُ۔ مَحْزُولٌ سے مہینا۔ الصبی: رونے

کے لئے تیار ہونا۔
تَهَا كَفْتُ بِهٍ تَعُوبُ کرنا

الِهِنْدُوفُ مِسْكَرِٹ سے اونچی مہی۔
الِهِنْدُوفُ۔ بے آرامی۔ بے قراری۔

الِهِنْدُوفُ۔ کھجور یا اس کی ایک قسم۔
الِهِنْدُوفُ۔ وقت

الِهِنْدُوفُ۔ تخفیف نون یا تشدید کے
ساتھ چیز۔ کہتے ہیں هَذَا اَهْنَكُ

یہ تمہاری چیز ہے۔ تصغیر: هِنْدِي
مَوْنُ: هِنْدَا۔ لام کلمہ مفرد

ہے جو بعض لغت میں کھاد ہے تو
تصغیر: هِنْدِيَّةُ ہرگی۔ کہتے ہیں

أَمَلْتُ هِنْدِيَّةً یعنی تھوڑی
دیر ٹھہرو۔ بعض لغت میں لام کلمہ

واو سے تو تصغیر اس کی بحالت تائید
هِنْدِيَّةُ ہرگی اور جمع هِنْدَوَاتُ

بعض مرتبہ اپنے اصل پر جمع آتی ہے
هِنْدَاتُ۔ حالت رفعی میں هِنْدُوہَا

نصبی میں هِنْدَا ہا اور جری میں هِنْدِيَا
کہتے ہیں۔ الِهِنْدُ کا تنہی هِنْدَانِ

وَهِنْدَانِ ہے ج: هِنْدُونِ
کہتے ہیں فَلَانِ هِنْدَاتُ اس میں

بڑی خصلتیں ہیں
الِهِنْدَا۔ خیس اور کینہ نسب۔

هِنْدَا۔ اَنَا کے معنی میں بھی مستعمل ہے
کہتے ہیں هِنْدَا فَعَلْتُ یعنی اَنَا فَعَلْتُ

هِنْدَا۔ اسم اشارہ مکان قریب کے لئے
بمعنی یہاں۔ اس میں کھاد تنبیہ

یا کاف خطاب کا اضافہ کر کے کہتے
ہیں اِهْنَا یا هِنْدَا کہیں کاف

خطاب کے ساتھ لام بھی لگاتے ہیں
اور کہتے ہیں: هِنْدَا لَكَ۔

هِنْدَا۔ مَعْرِفَةٌ کھیل کود



جَاءَ مِنْ هَنِيٍّ - وہ یہاں سے آیا۔
 الِهَاتُ - مصیبت جہ: ہنوات
 ہنہ - تذکرہ اور وعید کے لئے اسم صرت
 ہنہ (س) ہنہا و ہنہۃ -
 تھلانا - زبان رکن -
 ہنہ مفرد مذکر نائب کی ضمیر تثنیہ ہنہا
 جہ: ہنہ مؤنث مفرد ہی تثنیہ
 ہنہ جہ: ہنہ
 ہنہ حقیقت - الشیء چیز کی اصلیت
 الہوہو - ہوہو سے مرکب اس
 کو اسم معرف بنایا گیا ہے اس کے معنی
 انہی دہانہات کے ہیں -
 ہاء تہوہ ہوہاء - بتفصیلہ الی
 المکافی بلذکرنا ہاء کا بخیر
 اوشیر - و ہاء یدہ خیراً و شراً
 گمان کرنا - تمت لگانا - ہاء یقلان
 خوش ہونا - ہاء ہیئۃ -
 حسنۃ وہ اچھی صورت شکل پر ہر گنا
 ہوئی یحوۃ ہوۃ - الیہ: ارادہ کرنا
 ہاء - کلمہ اہما بت ہے مبنی بفتح کہتے ہیں
 ہاء تیار رجل بحسۃ المزمۃ یعنی
 لاؤ - سات کی طرح اس کی بھی گردان
 ہوتی ہے - ہاء یأرجل اے مرد -
 لے - لک ہمزہ کی جگہ لاکہتے ہیں
 ہاک - ہاکما ہاکح
 ہاک - ہاکما - ہاکن -
 الہوہ - ہمت ارادہ - گمان - وقحہ
 کذا فی ہوہیرے گمان میں ایسا واقع ہوا
 الہوب دوری - بکواس کرنے والا -
 یوقف - آگ کی بھڑک
 الہوبز سوسن یا شرح سوسن جینا -
 بہت بالوں والا بندہ - ناکہ لہورہ
 بہت گشت والی اونٹنی -
 ہوت بہ تھوہیتا - چیننا - چلانا -
 فلان پست زمین کی طرف آنا -


الہوتۃ والہوتۃ - پست زمین -
 پانی کی طرف اترنے والا راستہ -
 جہ: ہوت - الہوتۃ پیاس
 ہوجہ یحوجہ ہوجا لہا - بیوقوف اور
 حلد باز ہونا - صفت: اہوجہ -
 اہوجہ لہا بے وقوف اور حلد باز پانا -
 تھوجہ - الحرجہ گرمی کا شدت سے ہونا
 الہوجاء مؤنث - الہوجہ
 تیز رفتا راؤٹنی - تیز آنکھی - جہ:
 ہوجہ - مندرجۃ ہوجاء
 وہ ضرب جس کا اثر حرف تک ہو -
 الہوجہ - بہادر - جنگوں میں بے دھڑک
 کرنے والا - ہو اہوجہ الطول
 وہ بہت لمبا ہے -
 ہوجہ الرجل کسی کا ہلکی نیند سونا -
 بے راہ رگستان میں چلنا -
 الہوجہ بے راستہ دور تک پھیلا ہوا
 رگستان - وہ راستہ جس میں میلوں
 وغیرہ کے نشانات نہ ہوں - ایسی
 زمین جس میں کچھ پتہ نہ چلے بہت
 بے وقوف - بدکار عورت - بی رات
 اذکھ کا بقیہ کشتی کا لنگر - ماہر - بہر
 سست رفتار -
 ہاد یحود ہودا - حق کی طرف رجوع
 کرنا - صفت: ہاسد جہ:
 ہود - فلان: یہودی ہونا
 (تھوہا دا) نرم آواز سے بولنا
 فی المنطق - نرمی اور آہستگی سے بولنا
 ہود تھوہا لکھ میں آواز نرمی سے پھرانا
 گانا - آہستہ آہستہ چلنا - ٹھہر ٹھہر کر
 چلنا - کوہان کا گشت کھانا -
 فلان: کسی کو یہودی بنانا - خوشی
 میں ڈالنا - لہو و لعب میں مشغول کرنا
 - الشراب فلان شراب کا کسی
 کو مست کرنا فلان فی المنطق

نرمی و آہستگی سے بولنا -
 فی السیر دیر کرنا -
 ہاود کا مٹھا و دہ - مال کرنا - واپس
 کرنا - صلح کرنا -
 تھوہا تھوہا تو بہ کرنا حق کی طرف
 رجوع کرنا - یہودی ہونا -
 فی المنطق - نرمی و آہستگی سے بولنا
 الہوہا دہ - نرمی - وہ چیز جس سے قوم
 میں بھلائی کی امید کی جاسکے -
 تحقیف و سہولت میلان -
 الہود - یہود جہ - ہاسد
 ہود - ایک برگزیدہ نبی - قوہ ہود
 قوم عاد -
 الہودۃ والہودۃ - کرمان جہ: ہود
 التھوہید مصریت میں ہوا کی سائیں سائیں
 کی آواز الیہودیتی - الیہود کا واحد
 الیہودیتہ - یہودی عورت
 بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کا
 علاقہ -
 الہاودۃ - ہم مراجعت
 الہود - ناگرتا - کھیل کر و طرب میں
 ڈالنے والے
 الہود جہ کجاوہ - یہودہ جہ: ہوا د جہ -
 الہودع شرم مرغ واحد - (ہودۃ)
 الہودک مؤنث - مؤنث ہودک کہتے
 ہودا - ہوہندا اور ذابخہ سے مرکب
 ہے کبھی ہاء منیبہ کا اضافہ کر کے
 ہاہودا کہتے ہیں -
 الہاڈۃ - ایک قسم کا درخت جہ: ہاڈ
 الہودۃ - بہت تیز جہ - ہود
 ہاڈیہود ہودا - فلان با لاؤ
 تمت لگانا - بکنا گمان کرنا خیال
 کرنا - عن الشیء کسی کو کسی شے
 سے پھیر دینا - علی الشیء کسی کو کسی
 چیز پر اگنا - ہاڈ القوہ قتل کرنا

— فَلَکَآءٌ وَهَوَاکَاوِنَا —
 پچھاڑنا۔ الشیء: چیز کا تھمید کرنا۔
 اندازہ لگانا۔ البناء: عمارت کا
 گرنے۔ (هَوْرًا وَهَوْرًا) البناء
 عمارت چھٹ جانا۔ صفت (هَاشِوْ)
 اور ہاشی: بھی کہتے ہیں۔
 هَوْرَدَ: تھوڑا پچھاڑنا۔ ہلکتے ہیں
 ڈالنا۔
 تَهَوَّرَ تَهَوَّرًا وَتَهَوَّرًا تَهَوَّرًا البناء
 عمارت کا منہدم ہونا۔ گرنے۔
 لرجل: لاپرواہی سے کام میں لگنا۔
 الوَعْلُ النَّاسِ لَوُکُلٍ مِّنْ بَنَاتِ بَیْلِی جَانَا
 البیل: رات کا گزر جانا یا اس کا اکثر
 حصہ گزر جانا۔ الشیء: موسم سرما
 کا اکثر حصہ گزر جانا۔ اور اس کی
 ٹھنڈک کا ماند ہونا۔
 اِنْهَارًا اِنْهَارًا البناء: عمارت کا
 منہدم ہونا۔ گرنے۔ الخرق: پھٹنا
 اور گرنے۔ اِهْتَوَدَ اِهْتَوَرًا
 الشیء: ہلاک ہونا۔
 الهَوُسُ۔ مصر: جھوٹا سمندر ج اَھْوَادُ
 — الهَوْدُ بکریوں کا ریوڑ۔ رَجُلٌ
 هَادٍ وَهَادٌ زمانہ کی سختی سے کمزور آدمی
 الهَوَسَاةُ: ہلاکت
 الهَوَسَاةُ: ہلاکت کی جگہ ج۔ هَوْرَات
 الهَوَسَاةُ: تہمت۔ گمان
 الهَيَاذُ: کمزور
 الهَيَاذُ: بیاہی سے کاموں میں گھس پڑنے والا
 التَّهْوِيْدُ: گری ہوئی ریت۔ پست زمین
 هَوْرٌ تَهْوِيْدًا: مرنا۔
 الهَوْرُ: مخلوق۔ کہتے ہیں مافی الْهَوْرِ
 مِثْلُکَ: مخلوق میں میرے مانند کوئی
 نہیں۔ مَا اَدْرِیْ اَنْیَ الْهَوْرِ هُوَ
 مجھے معلوم نہیں وہ کون مخلوق ہے
 هَوْسٌ: حسابِ قہر کے حروف کا دوسرا

مجموعہ۔
 الْاَهْوَاذُ: بصرہ اور فارس کے درمیان
 کا علاقہ۔
 الْهَوْرِيَّةُ: گدھ مضبوط وقوی اونٹ
 الْهَوْرَنُ: غبار۔
 هَا سَ یَهْوُسُ هَوْسًا — الشیء۔
 کوٹنا۔ توڑنا کہتے ہیں حَمَلٌ عَلَی
 الْعَسْکَرِ فَکَانَ اَسْهَمٌ وَهَاسَهُمْ
 لشکر پر حمل کیا اور اہل لشکر کو روند
 ڈالا اور توڑ دیا۔ باللیل: رات
 میں پھرتا۔ گھومتا۔ الطعام بہت
 کھانا۔ الابل: اونٹ کو آہستہ
 ہانکنا۔ الرجل: زمین پر سخت ٹیک
 لگاتے ہوئے چلنا۔ الذئب فی
 الْعَنَکِمْ بھیر پیسے کا بکریوں میں تباہی
 ڈالنا۔ حَوْلَ الشَّیْءِ: چیر کے گرد گھومنا
 هَوْسٌ یَهْوُسُ هَوْسًا — الْقَوْدُ:
 قوم کا حیرت و اضطراب و فساد
 میں پڑنا۔ فُلَانٌ: کسی کا ہوس
 والا ہونا۔
 هَوَسَہُمْ ہوس دلانا۔ کوٹنا
 تَهَوَّسَ۔ ہوس والا ہونا۔ نرم زمین میں
 سخت چال چلنا۔
 الهَوُسُ۔ مصر: جنون۔ پاگل پن۔
 بَرَأْسُہُمْ هَوْسٌ اُس کے سر میں
 جکڑ ہے
 الْهَوَاْسُ وَالْهَوَاْسَةُ رات کو گھومنے
 اور پھرنے والا شیر۔ سحر بہ کار
 بہادر۔ رَجُلٌ هَوَسٌ اُس بہت
 کھانے والا۔ بڑا پیٹو۔
 الْهَوْلِیْسُ: منکر۔ دل میں چھپائی ہوئی
 چیز۔
 الْاَهْوُسُ: ہوس والا۔ بہت کھانے والا
 مَوْنٌ: ہوس
 النَّاسُ هَوْسٌ دَالِزَمَانُ اَهْوُسُ

لوگ زمانہ کی پاکیزہ چیزیں کھاتے
 ہیں۔ اور زمانہ ان کو مار کر کھا جاتا ہے
 الْمَهْوُسُ: معر رَجُلٌ مَهْوُسٌ۔
 اپنے جی سے باتیں کرنے والا
 هَاشِی تَهْوُسُ هَوْسًا۔ المال:۔
 مال حرام طریقہ سے جمع کرنا۔ القوم:
 مضطرب ہونا۔ فتنہ و فساد واقع
 ہونا۔
 اَهْلُ الْحَزْبِ لَقَبُهُمْ اِلَى بَعْضِ
 بعض کا بعض کی طرف اُٹھنا۔
 هَاشَتُ الْخَيْلِ فی الْعَسَاةِ۔
 گھوڑوں کا بدک کر غیر متبر ہونا۔
 صفت (رَهْوَا اِشْتِ)
 هَوْسٌ یَهْوُسُ هَوْسًا مضطرب
 ہونا۔ دُیْلُہُ پین سے چھوٹے پیٹ والا
 ہونا۔ القوم: غلط و مضطرب ہونا
 هَوْسٌ تَهْوِيْدًا۔ الشیء: غلط ملط کرنا
 هَوَسَتْ الرِّیْعُ بِالْعِبَارِ
 ہوا کا رنگ بزمگ غبار لانا۔ القوم:
 قوم میں فتنہ و اختلاف ڈالنا۔
 الشیء: چیز کو ادھر ادھر سے جمع کرنا۔
 هَادِسُهُمْ مَّهَادِسَةٌ بَاہِمٌ مَلَا۔
 تَهَوَّسَ الْقَوْمُ تَهَوَّسًا وَتَهَوَّسًا
 تَهَاوَسًا: مخلوط ہونا
 تَهَوَّسُوا عَلٰی فُلَانٍ جمع ہونا۔
 الْهَاسِیْنُ: ف۔ یہ ہوش کی تاکید کے لئے آتا
 ہے۔ کہتے ہیں جَاءَ بِالْهَوْسِ
 الْهَاسِیْنِ وہ بڑی تعداد لایا
 الْهَوْسُ: پیٹ کا خال ہونا۔ بڑی تعداد
 جَاءَ بِالْهَوْسِ وَالْبَوْسِ
 وہ بڑی تعداد والی جماعت لایا۔
 الْهَوْسَةُ: مخلوط گروہ۔ فتنہ۔ اضطراب
 ج۔ هَوَسَاتٌ وَهَوَسَاتٌ
 اَیَّاکُمْ وَهَوَسَاتِ اللیل۔
 رات کے حوادث سے بچو۔



اَتَقُوْا هَوْنَ شَاتِ السُّوْقِ -

بازار کی گراہی سے بچو۔ اور اس سے
کر کوئی تم کو حیلہ سے ٹھک لے۔

الْهَوْنَاتُ - آدمیوں کی جماعتیں یا اونٹوں
کے ریوڑ۔ حلال حرام مال جمع کیا ہوا
الْهَوْنَةُ - مخلوط جماعت

الْتِهَادُ وَشُ - حرام مال

الْمِهَادِشُ - حرام راہ سے جمع کردہ مال۔
هَاعٌ يِّسَاعٌ هَوْنًا - سبک ہونا گھبرانا
الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ

ایک دوسرے پر حملہ کا ارادہ کرنا۔
تِهَاعٌ وَيَهُوْعٌ هَوْنًا - رُجُلٌ -
قے کرنا۔ اسم الْهَوْنُ وَالْمَوْنُ

وَالْمِهْيُوعَةُ - هَوْنٌ تَهْوِيْعًا
قے کرنا۔ اور ڈرانے کے موقع پر
کے ہیں لَا هَوْنَ عَنْهُ مَآ

اَلْكَلِّ میں اس کا کھایا یا پینا نکال لوگ
تَهْوَعٌ تَهْوَعًا بِنَكْلٍ قے کرنا۔
خون کی قے کرنا۔

الْمَوْنُ وَالْمَوْنَةُ

الْمَاعُ - حریص

الْمَوْنُ - بُرِّی اور شدت کی حرص۔

الْمَوْنُ وَالْمَوْنُ - دشمنی۔

الْمِهْوَعُ وَالْمَهْوَعُ لِرِطَائِيٍّ میں چلانے والا

الْمَهْوُوتُ وَالْمَهْوُوتُ گرم ہوا۔ ٹھنڈی ہوا

الْمَهْوُوتُ - خیر و بھلائی سے خالی

آدمی۔ بے وقوف آدمی۔

هَوْلٌ يَّهْوُكُ هَوْلًا - بیوقوف ہونا

هَوْلٌ تَهْوِيْكًَا گرہا کھودنا

هَوْلًا - بیوقوف بنانا

تَهْوَلٌ تَهْوَلًا كَاذًا اَنْهَالًا اَنْهِيْكًَا -

حیران و ششدر ہونا بے احتیاطی

سے مشکل میں پڑنا۔ بات میں

مضطرب ہونا۔

الْهَوْلُ وَالْهَوْلُ وَالْأَهْوَالُ

وَالْهَوْلُ وَالْيَهْوَالُ

تھوڑی سی

عقل رکھنے والا بے وقوف۔

الْهَوْلُ - مہم۔ تھوڑی سی عقل کے ساتھ
بیوقوفی۔

الْهَوْلُ - گرہا

الْمَهْوَالُ - متحیر

الْمَهْوَالَةُ - مؤنت (الْمَهْوَالُ)

أَرْضٌ هَوَالَةٌ وَهَوَالَةٌ

شور زمین۔

الْأَهْوَالَةُ - متحیر لوگ

الْمَهْوَالُ - متحیر۔ ہلاکت کے گڑھے میں

گرنے والا۔

هَالٌ يَّهْوُلُ هَوْلًا - الْأَهْوَالَةُ

دوڑنا گھبراہٹ میں ڈالنا۔

هَيْلٌ هَوْلًا - السُّكْدَانُ شرابی

کا نشہ میں مختلف رنگ دیکھنا اور

ڈرانا۔ کہتے ہیں هُلْتُ مِنْهُ

میں اس سے خوفزدہ ہوا۔

هَوْلًا تَهْوِيْلًا - خوف زدہ کرنا

هَوْلًا الْمَرْأَةُ عَوْرَتِهَا كَالْبَیْ

اور زیورات سے مزین ہونا۔

هَوْلًا الْأَهْوَالُ کام کر رہا بنا کر دکھانا

عَبْدِي الْأَهْوَالُ کام کو خوف ناک بنانا

الْقَوْمُ عَلَى الرَّجْلِ بِكَذَا

ڈرتا دھمکانا علی الرَّجْلِ حملہ کرنا۔

تَهْوَلٌ تَهْوَلًا - الرَّجُلُ خَوْفًا ہونا

مَآ، کسی کے مال پر نظر بد لگانے

کا ارادہ کرنا۔

اَهْتَالٌ اِهْتِيَالًا - خوفزدہ ہونا

اَسْتَهَالًا لَيْسَتْ تَهْوِيلًا فَلَانُ الْأَهْوَالُ

کسی کا کسی امر کو خوفزدہ پانا۔

الْهَائِلُ - خوف ناک۔ گھبراہٹ میں

ڈالنے والا مین الْأَهْوَالُ -

خوف ناک تاکید کے لئے آتا ہے۔

کہتے ہیں هَوْلٌ هَائِلٌ

الْهَائِلُ - سراب - الْهَوْلُ - مہم

خوف - جہ: اَهْوَالٌ وَهْوَالٌ

أَبُو الْهَوْلِ ایک شاعر کا نام۔

اِبْرَامُ مِصْرَ کے قریب ایک مجسمہ۔

الْهَالَةُ - چاند کا کڈل جہ۔ هَالَاتُ

الْهَوْلَةُ خوف دلانے کی آگ۔ وہ آگ جو

کسی کنوئیں میں سدگائی جاتی اور اس

پر نمک اور گندھک چھڑکتے جب وہ

چبھتا تو اس شخص سے کہتے جو قسم کھاتے

سے اعراض کرنا کہ یہ آگ سچہ گو،

دھمکی دے رہی ہے بچہ کو ڈرانے

کی چیز - عجیب۔

الْهَيْلَةُ - کسی کام کا خوف

الْتِهَادُ وَشُ سرخ - زرد - سبز - مختلف

رنگ - زیورات و تصاویر کی زینت

واحداً تَهْوِيْلًا (تَهْوِيلُ الرَّيْبِ)

موسم بہار کے رنگ بزرگ پھول۔

الْتِهْوِيلُ مہم جس سے ڈرایا جائے

الْمِهَالُ وَالْمِهَالُ خوف ناک جگہ۔

الْمَهْوَالُ - خوف ناک

الْمَهْوَالُ - قسم کھانے والا

هَوْمٌ تَهْوِيْمًا وَهَوْمٌ تَهْوِيْمًا

ادکھنا - تھوڑا سوسونا۔

الْمَهْوَالُ - سخت پیاس

الْمَهْوَالُ - پست زمین - بکری نیند

هَوْمٌ الْمَجْدُوسُ - چنبیلی کے مانند

ایک بودہ ہے مجوس اس کو اپنی عبادت

میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے

اس کو یہ نام دیا گیا۔

الْهَامَةُ - ہرجیز کی چوٹی - سر - دھڑ

پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ قوم

کا سردار اور رئیس - لوگوں کی

جماعت - گھوڑا جہ: هَامٌ وَهَامَاتُ

الْهَامَةُ - ایک چوٹی قسم کا آلہ۔

جس کو الصدی بھی کہتے ہیں کہتے ہیں
ہذا اہامۃ الیوم اؤغڈ
یہ آج مرگے کا یکل - اَصْبَحَ فُلَانٌ
ہامۃ فلاں مرگیا - بَنَاتُ الْهَامِ
دماغ کا مغز
الہیئم - ریت جو پانی جذب کرتی جائے۔
قَوْمٌ هَيِّمٌ پیا سے لوگ -
والہومۃ صحرا الہو ام شیر
الاہوؤم - بڑے سردالا
ہَاتَ بَهْوَنٌ هَوْنًا - الہم مکی
فُلَانٌ نَزَمَ دَاسَانَ ہونا ہنس
عیشی الیوم - یعنی آج
میرے پاس ٹھہرو اور آرام کرو۔
ہَاتَ يَهْوَنٌ هَوْنًا وَمَهَانًا وَمَهَانًا
الرجل - ذلیل و حقیر ہونا - اور
مسکین ہونا۔
هَوْنٌ تَهْوِيًا - عَلَيْهِ الْاَمْرُ
ہلکا کرنا هَوْنٌ الشیء پیچ جانا۔
هَادَنٌ مَّهَادَنَةً - کفستہ - نرمی کرنا
آهَاتٌ لِهَاتَةً - حقیر و بیچ جانا۔
تَهَادَنَ يَهْوَانًا وَاسْتَهَانَ
يَهْوَانَةً - حقیر جانا۔
مسخری کرنا - يَهْوِي مَجْنُونًا
اِهْوَانَتِ اِهْوَانًا - المَقَادَةُ
بیابان کا وسعت کے ساتھ بیت ہونا
الہَادَنُ وَالْهَادِنُ وَالْمَهَادِنُ
وہ طرف جس میں دوا وغیرہ کو میس
ج - هَوَاوِيْن -
الہوؤن مِم سکون و وقار
اِمْتَشَى عَلَى هَوْنِكَ اپنی روش پر چلو
و هَذَا شَيْءٌ هَوْنٌ -
یہ چیز حقیر ہے - اَحْبَبْتُ حَبِيْبَكَ
هَوْنًا مَا اپنے دوست سے درمیانی
درمیانی دوستی کرو۔ انفراد سے
کام نہ لہو۔

الہوؤن مِم - رسوائی - مخلوق -
مَا اَذْرَى آتَى الْهَوْنُ هُو
مجھے معلوم نہیں وہ کون مخلوق ہے
الہوؤتہ - تسکین - صلح - ج: هَوْنٌ
(- والہوؤتہ) نرمی سے چلنے
والی عورت -
الہیئۃ - اسم نوع - سکون و وقار
اِمْتَشَى عَلَى هَوْنِكَ نرمی سے چلو۔
الہوؤینا - نرمی آہستگی اور یہ ہوؤنی
کی تصغیر ہے اور ہوؤنی - آہوؤن
کی تانیث ہے -
الہیئۃ وَالْهَيِّن - آسان کمزور -
ذلیل - آہستہ کار - ج: آہوؤتاء
وہیئوؤن و ہیئوؤن مؤنث
ہیئۃ و ہیئۃ ج: ہیئات
وہیئات -
الآہوؤن - اسم تفصیل - آسان
المہوؤین و المہوؤات دور جگہ
پست زمین ج: مہوؤنات
المہوؤان بہت نرم ج: مہاوؤین
المہانۃ رسوائی
تہوؤا - الرجل درومند ہونا
المہوؤۃ و المہوؤۃ بزدل
الہوؤی باطل اور بے ہودہ کلام -
المہوؤۃ - احمق (- والہوؤھا)
ایسا کنواں جس میں اترنے والے
کے لئے کوئی سہارا نہیں۔
رَجُلٌ هَوَاهَا كَرُوْدُلٍ كَا حَمِ اَدَمِ
الہوؤ - جانب - کنارہ
المہوؤۃ - پست زمین - گہرا گڑھا - آسان
زمین کے درمیان کی فضا - ج:
هَوِيٌّ وَهَوِيٌّ وَهَوِيٌّ -
المہوؤۃ پست زمین گہرا گڑھا۔
هَوْنٌ تَهْوِيٌّ هَوْنًا - الطعنہ -
فیزے کے گھاؤ کا کشادہ ہونا

العقاب عقاب کا اپنے شکار پر ٹوٹ
پرٹنا - الریح
النَّاقَةُ بِرَاكِبِهَا اونٹنی کا تیز دوڑنا
هَوِي الرَّجُلُ مرنا -
فِي السَّيْرِ - گذرنا فی الارض - جانا
هَوِي يَهْوِي هَوِيًا وَهَوِيًا وَهَوِيًا نًا -
الشیء - اوپر سے نیچے کی جانب گرنا
بلند ہونا - چڑھنا - بعض کے نزدیک
اور الہوؤی ارتفاع کے لئے
ہے اور الہوؤی انحدار کے لئے
ہے هَوِي الرَّجُلُ ہلکا ہونا۔
یا رُكَّعَ سَمْرُومٍ ہونا۔
هَوِي يَهْوِي هَوِيًا - الْجَبَلُ
پہاڑ پر چڑھنا۔
هَوْتٌ تَهْوِي هَوِيًا - الْأَذُنُ
کان کا سنسنانا۔
هَوِيَهُ قِيَمًا اَهْوِي محبت کرنا چاہنا
صفت - (هَوِي)
هَادَاةٌ مَّهَادَاةٌ وَهَوَاةٌ -
مدارات کرنا - هَادِي ضَلَالٍ
کسی کا تیز چلنا۔
اَهْوِي اَهْوَاةً - الشیء - چیر کا گرنا۔
آهَوْتُ يَدِي لَهْ - ہاتھ کا لمبا ہونا۔
آهَوَيْتُ بِالشیء یعنی میں نے اس کا
اشارہ کیا آهَوْتُ الْعِقَابُ
عقاب کا شکار پر ٹوٹ پرٹنا۔
آهَوِي الشیء چیز کو اوپر سے ڈال
دینا۔
تَهَاوَى - الْقَوْمُ فِي الْمَهْوَاةِ
گرمے میں ایک دوسرے کے اوپر
گرنا تَهَاوَى الرَّجُلُ تیز چلنا
اِهْوَى اِهْوَاةً - اِلَيْهِ لِيَشِيءُ
اشارہ کرنا
اِهْوَى اِهْوَاةً - الشیء چیز کا اوپر
سے نیچے کرنا۔



اِسْتَحْوَاكَ اِسْتَحْوَاكَ كَيْسِي كُوَيْرَانِ وَهَوَتْ
کرنے کا عشق کمزین کر کے دکھانا۔

الْهَوَاۤی - فَا بُدِی - حَرْفُ الْفِ کُوْبِحِ
ہاوی کہتے ہیں۔

الْهَوَاۤیَۃ - فِضَا - سِجِّمَ کَرْنِے وَالِی عَوْرَتِ
ہاویۃ - دوزخ

الْهَوَاۤیَۃ فِضَا - ج: اِهْوَاۤیَۃ

خالی چیز - بزدل (واحد و جمع یکساں)
الْهَوَاۤی - ہر چیز جو نیچے سے پھٹی ہو، اور

ہر سال سو گھنٹے کی چیز کو بھی ہوا
کہتے ہیں نسبت کے لئے ہوائی

کہتے ہیں - عَامَلَهُ بِالْهَوَاۤیِ وَاللَّوَاۤیِ
اس نے اس کے ساتھ کبھی مہربانی اور

نرمی سے کبھی سختی سے معاملہ کیا۔
الْمَهْوٰی مصدر هَوٰی خواہش عشق

خیر میں ہو یا شر میں محبوب - معشوق۔
محمود ہو یا مذموم - غیر محمود میں زیادہ تر

مستعمل ہے - کہتے ہیں فَلَا تُقْبَلُ
ہو - فلاں نے اپنی خواہش نفس

کی اتباع کی - گویا مذمت کے طور پر
بر لجاتا ہے فَلَا تُقْبَلُ مِنْ اَهْلِ

الْاَهْلِ افلاں راہ حق سے ہٹ گیا یعنی
بدعتی ہے -

الْمَهْوٰی مشتاق - شائق - مَوْنُث :
ہوئیہ

الْمَهْوٰی کان میں سنسناہٹ - محبوب
مضی ہوی او ہوی مِنْ اللَّیْلِ

رات کا ایک حصہ گزر گیا حَسَبْتُ
عِندَکَ هَوٰیًا میں اُس کے پاس

دیکھ بیٹھا۔
الْمَهْوٰیۃ گہرا کنواں - ج: هَوٰیَا

الْمَهْوٰی - هَوٰی کا اسم تفضیل
الْمَهْوٰیۃ فِضَا - گہرا گر دھا۔

مضی هَوٰیًا مِنْ اللَّیْلِ
رات کا ایک حصہ گزر گیا۔

الْمَهْوٰی وَالْمَهْوٰۃ فِضَا - دو پہاڑوں کے
درمیان کا فاصلہ

هَاءٌ یَّحِیُّ وَهَیْیَ یَهَاءُ دَیْهَیَا وَد
ہیوۃ یہیوۃ ہیۃۃ و

ہیۃۃ خوش شکل و ہیئت ہونا۔
هَاءٌ یَهَاءُ هَیْۃً - اِلَیْهِ

کسی کا مشتاق ہونا - یَهَاءُ
وہیۃ ہیۃ - اللام تیار ہونا

هَیْۃً تَهَیْۃً وَتَهَیْۃً دَرَسَتْ کَرْنَا -
تیار کرنا۔

هَیْۃً مَہَیْۃً - فِی الْاَمْرِ موافقت
کرنا - کہتے ہیں هَیْۃً فِی دَارِ

کذا گھر میں کچھ عرصہ دوسرا - بعض
کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر

ایک نے اپنے اپنے حصہ سے نفع اٹھایا
تَهَیْۃً تَهَیْۃً - اللام - تیار ہونا

آمادہ ہونا - مستعد ہونا - الشی
لِفُلَانٍ کسی کے لئے کوئی چیز ممکن ہونا

تَهَیْۃً وَتَهَیْۃً - عَلٰی الْاَمْرِ - آپس میں
موافقت کرنا۔ عَسٰی کَذَا

مجمع ہونا۔
الْهَیْیُ وَالْهَیْیُ - کھانے پینے کی دعوت۔

الْهَیْیَۃ وَالْهَیْیَۃ چیز کی حالت۔
کیفیت - شکل و صورت ج:

هَیْیَات - عَلِمَ الْهَیْیَۃ
وہ علم جس میں اجرام سماویہ سے بحث ہو۔

الْهَیْیُ وَالْهَیْیُ - اچھی ہیئت کا۔
هَابَہ یَهَابَہ هَیْۃً وَهَیْیَۃً وَ

مَہَابَۃً خَوْفٌ کَہَانَا - ڈرنا، بچنا۔
صفت: هَیْۃً وَهَیْیَۃً وَ

هَیْیَۃً وَهَیْیَۃً وَهَیْیَۃً
وہیۃان وہیۃان وہیۃان

وہ جو لوگوں سے ڈرے هَوْبُ
وہ جس سے لوگ ڈریں۔

هَابَ السَّرِجُلُ فَلَاکَ تَعْظِیْمٌ وَتَوْقِیْرٌ

کرنا۔

هَیْیَۃً تَهَیْیَا اِلٰی فَلَانٍ ہِیْیَۃً نَاکِثًا
اَهَابَ اِهَابَہ - الشی یَغْتَبِمُ

چرواہے کا بکریوں کو ٹھہرانے یا ڈرانے
کے لئے لٹکانا - بِالْاِیْلِ هَابَ

کہہ کر اونٹوں کو ڈانٹنا بِالْخِیْلِ
هَبَ یا ہبی کہہ کے گھوڑوں کو بلانا یا

ڈانٹنا - اِهَابَ یَصَابُ جِیۡمَ ہانا
تَهَیْیَۃً تَهَیْیَا - ڈرنا ڈرانے بگھرا دینا

اَهْتَابَ اِهْتَابًا مَعْنٰی هَابَہ
الْهَیْیَۃ - مَم خوف

الْهَیْیَۃان لوگوں سے ڈرنے والا۔ بزدل
ہلکا - چرواہا - مٹی - اونٹ کے منہ

کے جھاگ - بہت۔
الْاَهْیَبُ - زیادہ رعب والا مَکَانٌ

مَہَابٌ وَمَہُوْبٌ خوف کی جگہ - کہا
جاتا ہے هَذَا الشَّیْءُ هَیْیَۃً لَدَّ

یہ چیز تمہارے لئے ڈر کا باعث ہے۔
هَیْیَۃً تَهَیْیَا بَفْلَانٍ - چلانا - پکارنا

هَابَ - مَعْنٰی دے - لا - مَوْنُثْ هَیْیَۃً
مُتَشَبِّہً هَیْیَا جَمْعُ هَیْیَا وَ

هَیْیَیْنِ
الْهَیْیَۃ بہت گہری زمین هَیْیَۃً وَهَیْیَۃً

لَدَّ وَکَہَا وَکَہَا وَکَہَا
یہاں آؤ - آؤ۔

هَیْیَۃً تَهَیْیَا وَهَیْیَۃً
لِفُلَانٍ - تھوڑا سا دینا مِنَ الْمَالِ

مال سے ضرورت کے مطابق حصہ پانا
فِی الشَّیْءِ - خِیَادُ النَّا - تباہ کرنا۔

بِرِجْلِهِ الذَّرَابُ پاؤں سے مٹی
اُکھیرنا۔ (کھینٹنا) الْقَوْدُ

جھگڑے کے وقت ایک دوسرے کے
ساتھ گتھ جانا - الشیءُ حَرَّکَتْ کَرْنَا۔

هَیْیَۃً مَہَیْیَۃً ایک دوسرے پر
دولت مندی میں فخر کرنا کثرت پر فخر کرنا

تَهَيَّجَتْ تَهَيُّجًا لَمْ شَيْئًا - دینا
تَهَيَّجُوا جُحُودًا جُحُودًا کے وقت ایک دوسرے
کے ساتھ گھٹنا۔

اِسْتَهْجَتْ اِسْتِهْجَاةً - مَا اَعْطَاهُ
دیئے کو زیادہ کھنا - زیادہ مانگنا۔
- اَلْمَالُ - مال تباہ کرنا

اَلْمَيْتَةُ - حرکت
اَلْمَيْتَةُ - لوگوں کی جماعت
هَاجَتْ اَلْقَوْمَ - قوم کا شور
اَلْمُهَاجِثُ - بہت لینے والا۔

هَاجَرَ يَهْجِرُ هَيْجًا وَهَيْجًا
وَهَيْجَاتٍ - اَلشَّيْءُ يَهْجِسُ وَحَرَكَتِ
میں آنا - چڑھنا - اَلرَّجُلُ
مماقت سے مضطرب و متحرک ہونا
بہادر ہونا - کدو پڑنا - اَلشَّيْءُ
بِاَلشَّيْءِ بَرَّانِكَيْتُهُ كَرْنَا - هَاجَتِ
اَلْاِبِلُ اَوْتُولُ كَاسِيَا سَهُونَا -

هَاجَرَ النِّبْتُ - کھاس کا سوکھ جانا
هَاجَتِ اَلْاَرْضُ زَمِينَ كَاسِيَا
کا سوکھنے لگنا - هَاجَرَ اَلْاِبِلُ
اونٹوں کو رات کے وقت چارے
یا گھاٹ کی طرف چلانا - هَاجَتِ
اَلسَّمَاءُ اَسْمَانًا كَاسِيَا بَادُو بَارًا
والا ہونا

هَاجَرَ تَهَيُّجًا - اَلشَّيْءُ يَهْجِسُ وَحَرَكَتِ
اَلْمُهَاجِثُ - ہٹنا ہٹنا
اس نے ان دونوں کے درمیان
شروع و فساد کو بھڑکایا۔
هَاجَرَ مَهَاجِرَةً وَهَيْجًا - بَرَّانِكَيْتُهُ
کرنا - لڑائی کرنا۔

اَهَاجَتْ اِهَاجَةً - اَلرَّجُلُ يَهْجِسُ وَحَرَكَتِ
ہوا کا نباتات کو خشک کرنا
اَهْجَرَ اِهْجَارًا - اَلْاَرْضُ زَمِينَ
کو سوکھی نباتات والی پانا
تَهَيَّجَتْ تَهَيُّجًا - بَرَّانِكَيْتُهُ ہونا بھڑکنا

تَهَيَّجَتْ تَهَيُّجًا - اَلْقَوْمَ - ایک
دوسرے پر حملہ کرنا - ایک دوسرے
سے لڑنا۔

اَهْتَجَرَ اِهْتِجَارًا - اَلشَّيْءُ يَهْجِسُ وَحَرَكَتِ
اَلْمُهَاجِثُ - فَا جَوْش - غضب - هَاجَرَ
هَاجِرَةً اس کا غصہ بھڑک گیا
هَدَّ اَهَاجَةً اس کا غصہ
ٹھنڈا ہو گیا۔

اَلْمُهَاجِثَةُ مَوْتٌ - اَلْمُهَاجِثَةُ اَرْضٌ
هَاجِرَةً سُوْكَهِي يَزِدُّ لَهَا
والی زمین۔

اَلْمُهَاجِرَةُ - مَم - لڑائی - زردی - پشیموگی
حرکت - تند ہوا - يَكُوْمُ هَاجِرًا
بادل و بارش یا ہوا و لادن
اول اول اٹھنے والے بادل کے
لئے کہتے ہیں هَاجَرَ لَمْ كَيْفِيَّةً حَسَنَةً
اَلْمُهَاجِرَةُ مَيْتَةٌ ج: هَاجَاتِ
اَلْمُهَاجِرَةُ اَلْمُهَاجِرَةُ لَرَّائِي

هَادَهُ يَهْدِيهِ هَادًا وَهَادًا
ڈرانا - مصیبت زدہ کرنا -
حرکت دینا - اصلاح کرنا - زائل
کرنا - منہدم کرنا - رونا - جھپٹنا
مَا يَهْدِي فِي ذَلِكْ نَزَجِي وَهَاجِرًا
میں ڈال سکتا ہے اور زمین اس کی
پروا کرتا ہوں۔

هَيْدَهُ تَهْيِيدًا مَعْنَى هَادَهُ
هَيْدَهُ اَلرَّجُلُ تَزَجِيًا -
هَيْدَهُ عَنْ شَيْءٍ وَهَاجِرًا كَالِي دِينَ
سے نہیں لڑکا

اَلْمُهَادُ - مَم - اونٹ کو ڈانٹنے کا کلمہ -
کہتے ہیں مَا لَكَ هَادًا اُس کو نہ کوئی
روکنے والا ہے نہ منع کرنے والا
اَلْمُهَيِّدُ - مَم مضطرب - احمق -
اَلْمُهَيِّدُ - بزدل - مضطرب - احمق -
بخیل ہیدہ تباہ کرنا - گرا دینا

اَلْمُهَيِّدُ كَهْضَرَاتٍ - كَوْرَا كَرُط
اَلْمُهَيِّدُ اَلْمُهَيِّدُ شَمَالِي هَوَا - اَلْمُهَيِّدُ د
اَلْمُهَيِّدُ - مَم اَللَّيْلُ رَاتٍ كَا
نصف اول - رَجُلٌ هَيْدٌ كَامُون
میں بے دھڑک گھس پڑنے والا آدمی
اَلْمُهَيِّدَةُ نَزَمَ زَمِينَ رَجُلٌ هَيْدًا
مزدور آدمی۔


هَاسٌ يَهْيِسُ هَيْسًا - اَلشَّيْءُ
مَم اَلشَّيْءُ كَثَرَتْ سَ لِينَا - فُلَانٌ
تیز چلنا۔

اَلْاَهْيَسُ - بہادر - بہت کھانے والا -
- مَم اَلْاِبِلُ جَرِي اَوْنُط
هَاشٌ يَهْيِسُ هَيْسًا - اَلشَّيْءُ يَهْجِسُ وَحَرَكَتِ
کرنا - اَلْقَوْمُ يَهْجِسُ وَحَرَكَتِ
حرکت کرنا - فُلَانٌ - بہت کلام کرنا
اَلنَّاقَةُ - اَوْنُطِي كَوَا مَهْتِ اَمَهْتِ دَوْنَا
- اَلْمَالُ - مال جمع کرنا -
اَلرَّجُلُ - خوش ہونا - اَلْمُهَيِّدَةُ
مخلوط جماعت - فتنہ - اضطراب
ج ہیشات۔

هَاسٌ يَهْيِسُ هَيْسًا - اَلشَّيْءُ
سنجی کرنا غنقہ گردن توڑنا۔
اَلطَّيْرُ پَرْنَدَہ کا بیٹ کرنا -
اَلْمُهَيِّدُ پَرْنَدَہ کے بیٹ کرنے کی جگہ
واحد مہیص۔

هَاسٌ يَهْيِسُ هَيْسًا - اَلطَّاسُ
پرنندہ کا بیٹ کرنا فُلَانٌ اَلْعَظَمُ
پڑی چڑھانے کے بعد پھر اس کو توڑنا
نَمَّا ثَلَّ اَلرَّجُلُ فَهَاسٌ
کذا اَبِيَارُ اُمُّ مَحْمُودُ اَبُو اَمَّا كَاسِيَا
کو فلاں چیز نے پھردو بارہ بیمار کر دیا
- اَلْحَدَثُ قَبْلَكَ - غم کا دل کو
بار بار لاحق ہونا۔

هَاسٌ يَهْيِسُ هَيْسًا - اَلطَّاسُ
کھینچنے کا بیٹ کرنا



ہونا۔ (یہاں ہیفہ -) العبد

نلام کا بھانگنا۔ (ہیفاف دہیفاف)

الابل۔ سخت پیاس کی وجہ سے اونٹوں

کا منہ کھول کر گرم ہوا کی طرف رخ کرنا

ہیفہ یهيف و هاف يهاف و

هيفاف و هيفاف - الغلام

پہلی کروالا ہونا۔ صفت۔ (اھیفہ)

مؤنث۔ ہیفاف ج۔ ہیفہ

اھافہ اھافہ - الرجل پیاسے

اونٹوں والا ہونا۔

اھاف اھافاف پیاسا ہونا۔ صفت:

مھتاف -

استہاف گرم ہوا کے گنے سے پیاسا ہونا

الھافاف - سخت پیاس

الھافافہ مؤنث - الھافاف -

سخت پیاس کی وجہ سے منہ کھول کر

گرم ہوا کی طرف رخ کرنے والی اونٹنی

ج۔ هَو الْف

الھیفہ۔ مہ وہ گرم ہوا جو نباتات کو خشک

کر کے۔ حیوانات کو پیاس لگائے۔

پانی کو سکھائے۔ ذھبت ہیفہ

لاذیانہا۔ یہ مثل اُس شخص کے لئے

بولی جاتی ہے جو اپنی عادت پر جما رہے

یا اس وقت جبکہ ہر شخص اپنی اپنی بات

پر متفرق ہو۔ دھل ہاف پیاس

پر صبر نہ کرنے والا آدمی۔ ابل ہافہ

جلد پیاسے ہونے والے اونٹ۔

المھیفاف والمھیفاف والمھیفوف

پیاسا جلدی پیاسا ہونے والا

اھیفہ۔ الظلم شرم مرغ کا لمبا ہونا۔

المھیفہ من التجال بہت لمبا

ترنگ کا یا لمبا پتلا آدمی۔ شرم مرغ۔

ج۔ اھیفاف وھیفوف مؤنث۔ ہیفافہ

الاھیفہ لمبی گردن والا۔

ھیفہ تھیفہ۔ جلدی کرنا۔ کھودنا۔

حریص ہونا۔

من الشئ کسی چیز سے اکتانا

تھیفہ تھیفاف و اٹھاف اٹھافاف

اشی کسی چیز کو سطح زمین پر پھیلنا۔

الھافہ۔ ف۔ لیل ہافہ تارک

رات۔ رجل ہافہ لایح

کمزور آدمی۔

الھافافہ مؤنث الھافہ تیز آواز

دشمن کی آواز جس سے انسان ڈرے

آلھیفاف۔ پھیلنا۔ کہتے ہیں ریحہ

ھیفاف۔ لیاف تیز ہوا۔

الھافہ۔ بہت لالچ۔ رجل ہافہ

بزدل کمزور آدمی۔

المھیفافہ۔ دشمن کی آواز جس سے انسان

ڈرے سطح زمین پر سینے والی چیز۔

سخت حریص۔ گھبراہٹ میں ڈانے

والی آ۔ زیا بڑائی ارض ہیفافہ

وسیع پھیلی ہوئی زمین۔ رجل ہیفہ

لیفہ۔ کمزور گھبرانے والا آدمی۔

المھیفافہ۔ بڑائی کی طرف جلدی کرنے والا

حیران۔

المھیفافہ۔ کشادہ۔ کھلا راستہ۔ ج:

مھافہ بلد مھیفاف کشادہ شہر۔

ھیفافہ ھیفافہ۔ المہافہ عورت کا

بدکار ہونا۔ (و تھیفافہ)

ایک جگہ پر نہ ٹھہرنا۔

المھیفافہ مہ۔ خفت۔ طیش۔ بدکار عورت

ھیفافہ تھیفافہ۔ المطر الارض

بارش کا زمین کو خوب تر کرنا۔

اھیفافہ۔ القوم۔ قوم کا خوش حال ہونا

الاھیفافہ خوش گوار اور فراخ زندگی۔

بہت پانی۔ سرسبز سال

والاھیفافہ تروتازگی اور اچھی حالت

یا کھانا پینا۔

ھاف یھیفہ ھیفافہ۔ بہت پیاسا

تھیفافہ تھیفافہ و اٹھاف اٹھافاف

الغٹم بڑی کا بعد جڑنے کے ٹوٹنا

تھیفافہ المراض بیماری کا بار بار حملہ

کرنا۔ اٹھاف اٹھافاف

بڑی کو جڑ جانے کے بعد ٹوٹنا۔

المھیفافہ۔ پرندہ کی بیٹ

المھیفافہ۔ لوگوں کی جماعت

المھیفافہ۔ ھاف کا اسم مرہ۔

ریخ و غم کا عود۔ بیماری کے بعد بیماری

اسہال کا مرض۔

ھیفافہ الکری نیند سے پیدا ہونے

والی سستی۔ غٹم مھیفافہ

جڑنے کے بعد ٹوٹی ہوئی بڑی۔

المستھاف۔ وہ آدمی جس کی بڑی درست

ہونے کے بعد پھر ٹوٹ جائے۔ بیماری

جو صحت پاکہ بد پر میزی سے دوبارہ

بیمار ہوا ہو۔

ھاف یھیفہ ھیفافہ۔ شور مچانا

ھاف یھیفہ مھافافہ وھیفافہ۔ بمعنی

ھاف۔ فلان کسی کو کمزور سمجھنا

تھاف یھیفہ تھافافہ القوم: قوم کا جمع ہو کر

آپس کے معاملات کی اصلاح کرنا۔

المھیفافہ۔ مہ۔ ما زال فی ھیفافہ و مھیفافہ

وہ شرارت اور شور و غوغا کرنے سے

باز نہیں آیا۔

ھم فی ھیفافہ و مھیفافہ۔ وہ

اضطراب اور آنے جانے میں ہیں۔

ھاف یھیفہ و یھاف ھیفافہ۔

اشی: سطح زمین پر پھیلنا۔

الرمافہ گھٹنا۔ الرجل۔ بھوکا ہونا

الابل الی الماء اونٹ کا پانی کا خوشبود

ہونا۔ الرجل بہ تکلف سے کرنا

(۔ ھیفافہ و ھیفافہ و ھیفافہ)

ھیفافہ و ھیفافہ و ھیفافہ بزدل ہونا۔

گھبرانہ۔ (۔ ھیفافہ و ھافافہ) سخت

هَال يَهِيْلُ هَيْلًا - عليه التراب
مٹی ڈالنا۔

هَيْلٌ تَهْيِيْلٌ - عليه التراب
مبغیٰ ہالہ تشدید کثرت کے لئے

تَهْيَلٌ تَهْيِيْلٌ وَ اَهْمَالٌ وَ اِنْهِيَا لَ
التراب۔ مٹی پڑنا یا ڈالی جانا۔

اِنْهَالُوا عَلٰی فُلَانٍ کسی پر ٹوٹ
پڑنا اور مار پیٹ کر نیا یا گالی دینا۔

الهَالِ ڈالی ہوئی ریت رملٌ هَالٌ
گرتے والی ریت۔

الهَيْلِ - مم - گری ہوئی ریت۔
الهَيْلُ وَ الهَيْلَمَانِ بہت مال۔ یا

ریت و ہوا۔
الهَيْالِ - گری ہوئی ریت۔

الهَاكَةِ چاند کے ارد گرد کا حلقہ۔ جہ
هَاكَاثٌ۔

الهَيْوُلُ وہ ذرات جو روشن دان میں سے
دھوپ کے اندر آتے وقت دکھائی

دیتے ہیں۔
الهَيْوُلِيّ وَ الهَيْوُلِيّ ابتدائی مادہ

هَيْوُلِيّ وَ هَيْوُلَاكِيّ منسوب
بہیوولی جہ هَيْوُلِيّاتٌ

هَيْكَلٌ هَيْكَلَةٌ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
کننا۔

هَامٌ يَهِيْلُهُ هَيْلًا وَ هَيْوَمًا
و هَيْمًا وَ هَيْمَانًا وَ تَهْيِيْمًا بَكْدَا

محبت کرنا۔ علی دَجِيْهِمِ آوارہ
پھرنا۔ (— هَيْمًا) پیاسا ہونا

هم لِيَقْنِيَتْ اپنے آپ کا
خیال رکھو۔

هَيْمَةٌ - الْحُبُّ - محبت کا کسی کو دیوانہ
کردینا۔

تَهَيَّمْتُ تَهَيَّمًا (الهِوْلَا) محبت کا
کسی کو پاگل کر دینا۔ فُلَانٌ

اِهْتَمَمْتُ اِهْتِمَامًا - لِيَقْنِيَتْ اپنے
نفس کے لئے حیل کرنا۔ تَبَرُّزٌ كَالنَّارِ۔

اُسْتَهْيِمْتُ - فَوَ اَذْكَ - محبت وغیرہ
کی وجہ سے عقل جاتی رہنا۔

صفت - (مُسْتَهْمَامٌ) الْفَوَادُ
الهَائِمُ - فَا - حِرَان - جہ هَيْمٌ وَ هَيْمَانٌ

الهَيَاةُ محبت سے پاگل لوگ
الهَيَاةُ ریت جو ہمیشہ گرتی رہے۔ جہ۔

هَيْمٌ۔
الهَيَاةُ عشق کا جھون سخت پیاس۔

افوٹوں کی ایک بیماری جس میں پیاس
سخت ہوتی ہے۔

هَيْمٌ اللَّهُ - اللہ کی قسم
الهَيَمَا لے اب رگیٹان الَا هَيْمٌ

پیام کی بیماری والا اونٹ مؤنث
هَيْمَانٌ جہ هَيْمٌ کیل آہیم

وَلَيْكَةُ هَيْمَانٌ وہ رات جس میں تار
نہوں الہییمان پیاسا۔ مؤنث

هَيْمِيّ جہ هَيْمَانٌ وَ هَيْمِيّ رَجُلٌ
هَيْمَانٌ محبت کی وجہ

سے شیفہ و سرگشتہ آدمی۔
الهَيْوَمَةُ متحیر۔ رَجُلٌ آهِيْمٌ بہت

پیاسا آدمی قَلْبٌ مُسْتَهْمَامٌ
محبت و عشق سے پریشان و سرگشتہ

دل۔
الْمَهْيُومُ بہت پیاسا۔ هَيَا مٌ کی

ہی

بیماری والا۔
هَيْمٌ هَيْمَةٌ آمِنٌ کننا۔ الطَّارِئُ

علی خداحہ پرندہ کا بچوں پر پھیلانا
— فُلَانٌ علی کذا کسی کی نگرانی

و نگہبانی کرنا۔
الْمُهَيْمُ وَ الْمُهَيْمَةُ اللہ تعالیٰ کے

اسمائے حسنیٰ میں سے ہیں۔ مگر ان
حفاظت کرنے والا۔ مخلوق کے اعمال

ارزاق و آجال کا کفیل و ذمہ دار
الہیئتہ روتی۔

الْهَيْمَةُ آہستہ آواز الہیئو مود
مہم کلام ہینہ ہینہ کسی چیز کے

دھڑکانے کا کلمہ بھینکنا
(اسم فعل) دُور ہوا۔ اس میں یہ۔

أَيْهَاتٌ وَ آيْهَانٌ وَ هَيْهَاتَ
وْهَلَايَاتٌ وَ هَايَهَاتَ۔

(آخر میں ہر سہ حرکات) کے نعت بھی
ہیں۔ یعنی بھی ہیں اور معرب بھی۔

هَيَا حرف نداء بعید کے لئے اس کی اصل
آیا ہے۔

هَيَّيْ بُنِّي وَ هَيَّانُ بَيْنَ بَيِّنَاتٍ۔
وہ شخص جو خود بھی غیر معروف ہو اور

اُس کا باپ بھی غیر معروف۔
اسم فعل یعنی امر۔ یعنی اپنے کام میں

جلدی کرو۔ کاف خطاب لاحق کر کے
کھیت کھیت کہتے ہیں تنہیں کھیتا اور

جمع میں هَيَّوْ اُجھی کہتے ہیں
کھیتا کھیتا جلدی کرو (اسم فعل)

الْمَهْيَاةُ شانِ معاملہ۔ مَا هَيَاةُ اس کا کیا
معاملہ ہے۔ اس کی کیا شان

ہی

ی

الْیاءُ - کبھی ضمیر مؤنث کی ہوتی ہے جیسے
تَقْوَمِینَ - تو کھڑی ہوتی ہے اور
قُوْنِیْ تو کھڑی ہو اور کبھی ضمیر متکلم کا کام
دیتی ہے جیسے مَرَبَّیْیَ اس نے مجھے مارا
اور کِیَافِی میری کتاب ۔

یَا - حرف ندا ہے قریب و بعید مرد و
کے لئے کبھی مادی محذوف ہوتا ہے
جیسے یَا لَیْتَنِیْ کُنْتُ مَعَهُمْ اور
یَا رَبَّ کَاسِیَةِ الدِّیْنِ عَارِیَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ
ان جہی امثل میں یا صرف تنبیہ کے لئے
ہے اور اَنَا فِی رَجُلٍ وِیَا لَہْ رَجُلَا
او من رجل یا
یَا لَکَ مِنْ قَارِیْ میں یا حرف ندا
اور لام تعجب کے لئے ہے ۔

یَیْسُ یَیْسٌ وِیَیْسٌ یَا سَا وِیَا سَا
منہ نا امید واپس ہونا صفت ماضی
رِیَاسٌ وِیَاسٌ وِیَاسٌ وِیَاسٌ
جمع یَاسٌ وِیَاسٌ - صفت ماضی
رَمِیْتُ وِیَاسٌ - منہ یس کبھی جانے
کے معنی بھی دیتا ہے جیسے اَلْحَمْدُ
تَبِیْ سُوْا فِی ابْنِ قَارِیْ رَہْکَہِ
کیا تم نہیں جانتے کہ میں قاریس زہد کا
بٹیا ہوں ۔

یَیْسَتِ الْمَرْأَةُ یَیْسٌ عورت کا ہاتھ
ہونا - صفت (یَا یَس)
اِیَاسٌ اِیَاسٌ اِیَاسٌ اِیَاسٌ
و مَوَّ اِیَاسٌ نا امید کرنا ۔
اَبَاسٌ اَبَاسٌ اَبَاسٌ اَبَاسٌ
باجھ کرنا ۔

اِتَاسٌ اِتَاسٌ اِتَاسٌ اِتَاسٌ
اِیْتِاسٌ اِیْتِاسٌ اِیْتِاسٌ اِیْتِاسٌ
اِیَاسٌ وِیَاسٌ اِیَاسٌ اِیَاسٌ
یَا یَا یَا یَا دِیَاسٌ اَلْقَوْمُ

پکارنا ۔ بِالْاِلَّیْلِ - اونٹوں کو کئی کمر کر
ٹھہرانا ۔ اِنِّیْ سے اونٹوں کو ڈانٹتے ہیں
یَا یَاسٌ - لوگوں کو جمع کرنے کے لئے اس سے
پکارا جاتا ہے ۔

اِیَاسٌ اِیَاسٌ - یو یو نامی شکاری پرندہ
کی چیخ ۔
اِیُوْیُوْ - باز سے مشابہ ایک قسم کا شکاری
پرندہ ۔ ج ۔ یَیَاسٌ

یَیْبٌ - المنزل - دیران کرنا ۔
اِیَاسٌ اِیَاسٌ - دیران
اَلْاِیْسِلُ جو کی طرح کا ایک پودا
یَیْسٌ یَیْسٌ وِیَیْسٌ یَیْسٌ وِیَیْبٌ
و اَلْاِیْسِلُ خشک ہونا ۔ صفت

یَیْسٌ وِیَیْسٌ وِیَیْبٌ وِیَیْبٌ
وِیَیْسٌ وِیَیْبٌ کتے میں یکس
مَا یَیْبُھُمَا ان دونوں کے آپس کے
تعلقات ٹوٹ گئے ۔

یَیْسٌ وِیَیْبٌ - الشی - خشک کرنا ۔
اَلْاِیْسِلُ الْمَکَانُ کسی جگہ کی نباتات کا
خشک ہونا اِیَیْسٌ الْقَوْمُ قوم کا
خشک زمین چٹنا اِیَیْسٌ یَا رَجُلُ
چپ رہو ۔

اِیَاسٌ - الرِّیْقُ تھوک کا خشک ہونا
اِیَاسٌ خا ۔ ج ۔ یَیْسٌ رَجُلٌ یَا یَیْسُ
بے خیر آدمی حَجْرٌ یَا یَیْسُ سخت پتھر
اِیَیْسٌ خشک تری کے بعد خشک شدہ
جگہ بے دودھ کی بکری ۔

اِیَیْسٌ - مہ خشک یا یس کی جمع شئی
یَیَاسٌ خشک چیز ۔
اِیَاسٌ اِیَاسٌ - یَیْیَسٌ الْمَاءُ
پسینہ ۔

اَلْاِیْبَانُ کھائی یا پٹلی کی دو ہڈیاں
اَلْاِیَاسُ سخت چیزیں جن پر تلواریں

ازمانی جاتی ہیں اِیَیْبَسٌ کی جمع ۔
اِیَاسٌ - پودوں کو خشک کرنے والی ہوا
اَلْیَاسُ وِیَاسٌ دودھ والے پودے
یَیْوَ عَاتٌ

یَیْمٌ یَیْمٌ وِیَیْمٌ وِیَیْمٌ وِیَیْمٌ
یَیْمٌ وِیَیْمٌ - الصبی من ایتیم ہونا
یَیْمٌ یَیْمٌ یَیْمٌ یَیْمٌ
تھکنا ۔ دیر کرنا ۔ مِنْ هَذَا الْاَفْرِ
رہائی پانا ۔

یَیْمٌ - الصبی بچہ کا یتیم ہونا
یَیْمٌ وِیَیْمٌ یتیم کرنا ۔
اِیَیْمَتِ الْمَرْأَةُ عورت کی اولاد
کا یتیم ہونا ۔ صفت (مَوِیْمٌ)
ج مَیَا یتیم ۔

اِیَیْمٌ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو ۔
مِنْ اَلْہَیْمِ وہ جانور جس کی ماں
مر گئی ہو ۔ ج اِیْتَامٌ وِیَیْمٌ و
یَیْمٌ وِیَیْمٌ وِیَیْمٌ وِیَیْمٌ

اِیَیْمٌ اِیَیْمٌ - لاشانی ۔ بے نظیر
اِیَیْمَتِ مَوْتِ اِیَیْمٌ ج ۔ یَیْمٌ
مردہ رگیشان ۔ ذَرَّةٌ یَیْمَةٌ
قیمتی ۔ بے نظیر موتی

اِیَیْمٌ غم اِیَیْمٌ - کینائی حالت
یتیمی ۔
اِیَیْمٌ مہ - کینائی یتیمی کی حالت ۔

حاجت ۔ فِی سِیرَةِ یَیْمٌ اُس کی چل
میں کمزوری وستی ہے صَبِیْ یَیْمَانُ
یتیم بچہ الحرب مِیْمَتٌ اِیَیْمٌ
بچوں کو یتیم بنانے والی ہے ۔

یَیْمَتٌ یَیْمَتٌ اِیَیْمَتٌ اِیَیْمَتٌ
اَلْمَرْأَةُ اِلْدَانِقَةُ اَلْوَلَدِ عورت
یا اونٹنی کا پائل (پاؤں کی طرف سے پیدا
ہونے والے) بچہ کو جننا ۔ صفت ؛

(موتین و موتیتہ)

اللیثن پاؤں کے بل بچہ کی پیدائش۔

البیحار کھینے کا ڈنڈا۔ چوگان

البحمود سرخ چھوٹی دم کا بارہنگھا

البحمود۔ سخت۔ سیاہ

بیذع۔ الثوب۔ کپڑے کو سرخ رنگ

ابیذع۔ الحجج علی نفسه احرام کے

وقت خوشبو لگا کر حج واجب کرنا

الابیذع۔ زعفران

سیدی سیدی سیدی۔ الرجل کسی کے

ہاتھ پر مارنا۔ صفت فاعلی (کیا)

صفت مفعولی میندی۔

سیدی سیدی سیدی۔ سیدی سیدی۔

من فلان کسی کا کسی سے فائدہ حاصل

کرنا۔ سیدی سیدی۔ من سیدی

ہاتھ جاتا رہنا۔ خشک ہونا

سیدی الرجل۔ کمزور ہونا۔

یادی میاداة۔ الرجل بدلتا

دست بدست دینا۔

ایندی ایذا۔ عند فلان والیہ

کسی پر انعام کرنا۔ صفت فاعلی۔

(مؤدی) صفت مفعولی (مؤدی)

الیہ

الید۔ ہاتھ پھیل۔ کلمہ مؤنث ہے اور

اس کا لام محذوف ہے۔ اصل اُس کی

سیدی ہے تثنیہ سیدان ج

الایدی والیدی۔ وج

الایادی ایادی کا استعمال

زیادہ تر نعمت کے لئے ہے۔

الایادی کی جمع الایدان ہے۔

الین۔ نعمت۔ احسان ج۔ سیدی

وسیدی ویدی وائی

الید۔ بہاء۔ مرتبہ۔ قدرت۔ طاقت۔

مالک علیہ ید تم کو اس پر طاقت

نہیں۔ ندامت۔ ذلت۔ جماعت۔

کھانا۔ علم سے روک۔ راستہ۔

فربادری۔ لقیثہ اول ذات

سیدین میں اس سے سب سے پہلے

ما سقظ فی سید۔ وہ نادام ہوا

لہ ید۔ بیضاء فی هذا الامر

وہ اس امر میں ماہر سے حدت۔

القافی علی ید یہ قاضی نے اس کو

تصرف سے روک دیا۔ اعطی بیدہ

وہ مطیع و فرمانبردار ہوا۔ ید الطائر

پرندہ کا بازو۔ ید الدھی مدت

زمانہ ید القاسی کھاڑی کا دست

ید القوس کمان کے ہر دو جانب

الید العلیا دینے والا ہاتھ۔

الید السفلی مانگنے والا ہاتھ۔

القوم علیہ ید واحدۃ قوم

اس پر ظلم کرنے یا دشمنی کرنے میں متحد

و متفق ہے۔ ہذا فی یدی میری

مک میں ہے الامر بید فلان

معاہدہ فلان کے ہاتھ میں ہے سیدی

دھین۔ ید ید میں اس کا ضامن

ہوں۔ مالی بفلان یدان

مجھے اس پر طاعت نہیں۔ امثال عرب

میں سے ہے ید اللہ فذوق

الجماعة جماعت پر انش کا ہاتھ ہے

یثی ید ایید۔ میں نے اس کو

نقدہ نقد بیج ڈھپو ایادی سا

اوائی سب وہ سب بچے گئے ید

الجوزاء ستاروں کا نام۔

الیدی۔ حاذق۔ ماہر ثوب کیائی

دسیح پیرا عیش یدی اسودہ رنگ

(۔ والیدی دتی کم کی طرف منسوب

الیدیۃ۔ ید کی تصغیر۔

الین یاء ماہر عورت

المودی۔ محسن منعم

المودی۔ الیہ انعام یا ہوا۔

المیدی ہاتھ کا۔ طبعی میندی

جال میں اگلی ٹانگ پھنسی ہوئی ہرنی۔

الوع۔ چوہہ کے مانند ایک جانور۔

جس کی اگلی ٹانگیں کوتاہ اور پچھلی بڑی

اور دم دراز ہوتی ہے۔ دم لمبی رکھتا

ہے۔ ج۔ ید اربع۔ الیارج

نگن۔ الیارج۔ ایک

دست اور معجون ج۔ آیار ج۔

الیاروج۔ تلوار۔

یدع یدع یدع۔ بزدل ہونا

الیدع۔ گائے کا بچہ

الیداع۔ جگنو۔ نکل۔ قلم۔ بانری

بزدل۔ کمزور۔ عقل درائے نہ رکھنے

والا۔ چھوٹی چھوٹی بھیر کبریاں۔

الیداع جگنا۔ الیداعۃ جگنو

نکل ج۔ یداع چرواہے کی

بانری۔ قلم۔ بے وقوف۔ بزدل

جھاڑی۔ شرمش۔ یدق یرقا

کی بیماری والا۔

الیدقان والیدقان کھیتی کا ایک

روگ۔ ایک قسم کا کیرا جو کھیتی کو خراب

کرتا ہے یرقان پلینا۔

الیدوق والیدوق۔ من الناس

والززع یرقان کا روگ۔

الیدمع مچھری۔ سفید چکینے والی نکریاں

ج۔ یدامع۔

یرقان یرقانۃ۔ الشی۔ ہندی سے رنگنا

الیدنا والیدنا۔ الیدنا ہندی

لیسہ کیسٹو کیسٹو والیسٹا نرم ہونا

مطیع ہونا لیسرۃ المرأة عورت

پر زبکی آسان ہونا (۔ لیسڈا)

جوا کھینا۔ الرجل۔ اٹی طرف سے آنا

القوم المناقۃ دگوں کا اوٹنی

کے گوشت کے حصے کر کے آپس میں

بانٹ لینا۔



لِیَسْرِ یَسْرًا کَمَ هَوْنًا صَفَتْ کَیْسًا
لِیَسَّرَ الشَّیْءَ لِفُلَانٍ یَسْلُ وَاسَانُ کَرْنَا
تَوْفِیقٌ دُنِیَا کَیْسَاتٍ الْعَظْمِ کَرِی کی نسل
اور اس کا دودھ بڑھنا۔

الْیَسْرُ الْیَسَارُ مَالٌ دَارِ هَوْنًا صَفَتْ
(مُؤَسِّرٌ) ج۔ مَیَا سَیْر۔
الِیَسْرُ الرِّجْلُ۔ مطالبہ میں کسی کے ساتھ
آسانی برتنا۔

یَا سَرَّةَ مَیَا سَرَّةً۔ نرمی برتنا۔
بائیں جانب سے آنا۔

تَیَسَّرَ لِقِتَالِی مَقَاتِلَہ کے لئے تیار
ہونا۔ الہَادُ۔ ملک کا سرسبز ہونا
الہَادُ: دُن کا ٹھنڈا ہونا۔

(وَأَسْتَبَسَّرَ) الامرُ۔ آسان ہونا
وَأَسْتَبَسَّرَ لَہ الْآخِرُ۔ تیار ہونا۔
تَیَا سَر۔ آپس میں آسانی برتنا۔

الرِّجْلُ: بائیں جانب سے کرنا۔ الْقَوْمُ
بائیں جانب لینا۔ (وَالشَّرُّ وَالتَّيْسُ)
القَوْم۔ جوئے کے ذبیحہ کے گوشت
کو آپس میں تقسیم کرنا۔

الِیْسُو وَالِیْسُو وَالِیْسَارَةُ سَهْلٌ وَزَمِ
أَسْوَدُکُ خُوش حَالِی۔

الِیْسَارُ۔ آسانی۔ تَکْرَرِی

(وَالِیْسَارُ) بایاں جہ
لِیْسُو وَلِیْسُو۔

الِیْسُو مِم۔ آسان۔ تیار کیا ہوا۔
جوا کھیلنے والوں کی جماعت ج:

رَجُلٌ أَعْسَرَ لِیْسُو
دونوں ہاتھوں سے کام کرنے والا

الِیَامِیُّ نَا۔ آسان۔ بایاں۔ قِصَاصِی
ج۔ اَیْسَار۔

الِیْسُوۃُ۔ ہاتھ کے غیر متصل خطوط۔ دونوں
رانوں کے داغ۔ ج۔ اَیْسَار و

کَیْسَاتٍ الِیْسُوۃُ بَیْلٌ ثَابِتٌ۔ الِیْسُوۃُ ج
لِیْسَرِیَاتٍ وَالِیْسُوۃُ بایاں

الْاَلِیْسَرُ۔ بائیں جانب والا۔ آسان۔ یَسْلُ
الِیْسَرُ۔ تھوڑا۔ ذرا سا۔ آسان۔
(وَالِیْسُوۃُ) جوئے میں غالب
آنے والا۔

الْمَلِیْسِی۔ جُوراً۔ تیروں کا جُوراً۔ وہ ذبح
شدہ جانور جس پر جوا کھیلنا جائے۔
عروں میں یہ رسم تھی کہ اونٹ ذبح
کرتے اور اس کے دس یا اٹھائیس

حصے کرتے پھر تیروں سے قرعہ ڈالتے
جس کے نام پر بے نشان تیر نکلتا اس

کو ذبح شدہ کی تمام قیمت دینی پڑتی
الْمَلِیْسُوۃُ بائیں جانب۔ ذبح کا بایاں

بازو ج۔ مَیَا سَر۔

(وَالْمَلِیْسُوۃُ وَالْمَلِیْسُوۃُ)
آسانی۔ دوت مندی۔

الْمَلِیْسُوۃُ۔ آسان۔ کامیابی سے کیا ہوا کام
ج۔ مَیَا سَیْر۔

الِیَا سَیْمٌ وَالِیَا سَمُوۃٌ خَبِیْ
لِیْسٌ یَکِیْسُ لِیْسًا الْمَاءُ۔ پانی کا تغیر

ہونا

الِیْسَبُ وَالِیْسَبُ وَالِیْسَبُ اِیْک
قیمتی پتھر۔

الِیْسَبُ وَالِیْسَبُ یَسْبُ

الْاَلِیْسَرُ سوکھی گھاس جہ، اَمَاصِیْر۔
لِیْعَرْتُ تَیْعَرُ وَتَیْعَرُ جَعَا سَرَا۔

الْمَشَاةُ اَوِ الْمَعْرَی کبریٰ کی میانا۔
الِیْعَرُ وَالِیْعَرَةُ۔ کبریٰ کا بچہ جس کو شیر یا

بھیر پٹے کے شکار کے لئے گڑھے
کے پاس باندھتے ہیں جہ یَعَار۔

الِیْعُسُوبُ۔ شہد کی کھپوں کا بادشاہ۔
ج۔ یَعَا سَیْب۔

الِیْعُقُودُ ہرن الِیْعُرُ۔ کتے سے جھوٹا
بی سے بڑا ایک جانور۔ اُس کو غُورِی

بھی کہتے ہیں۔
یَفَحَّ یَفْحُ یَفْحًا۔ الولد لڑکے کی

خند یا پر مارنا۔
الِیَا فُوحٌ اَوِ الِیَا فُوحٌ۔ بچہ کا تالو
جو حرکت کرتا ہے ج۔ یَوَافِیْقُ۔
حَدَّعَ الْقَوْمُ یَا فُوحٌ اللَّیْلُ
یہ جب بولتے ہیں کہ لوگ تاریکی رات
میں چلیں۔ اور جب کوئی مجھ کرتا
ہے تو کہتے ہیں مَسَّ یَا فُوحِہ
السَّمَاءُ۔

یَفَحَّ یَفْحُ یَفْحًا وَ اِیْفَحَّ۔ الْعَلَامُ
لڑکے کا بڑھنا اور بلوغ تک پہنچنا

یَفْحَسُ الْجَبَلُ
پہاڑ پر چڑھنا۔

الِیْفَحُّ وَالِیْفَحُّ اَوِ الْیَا فِیْلَہ۔ بلند زمین
ج۔ یَفْحُوعُ۔ عَلَامٌ یَفْحُوعُ۔ نرجوان
لڑکا۔ ج۔ اِیْفَحُّ۔

الِیْفَحَّةُ بلوغ کے قریب پہنچا ہوا لڑکا
(تثنیہ جمع کماں)

الِیَا فِیْحَةُ مَوْنٌ الْیَا فِیْحُ جہ: یَا فِیْحَاتُ
الِیَا فِیْحَاتُ مِنَ الْاُمُوۃِ۔ طاقت

سے بالائے کام مِنَ الْجَبَالِ
بلند پہاڑ۔ الِیْفَحَّةُ بلند

زمین جہ مِیَا فِیْحُ۔ الِیْفَحُّ
پرفروٹ۔

یَفْحٌ یَفْحٌ یَفْحُوعُ۔ سفید ہونا
الِیْفَحُّ کھجور کے اندر کا سفید گودا

کہتے ہیں اَبِیْفَحُّ یَفْحٌ وَ یَفْحٌ
سفید جھک جہ۔ یَفْحَانِی۔

الِیَا فُوتُ۔ ایک قیمتی پتھر واحد یَا فُوتُ
جہ۔ یَوَافِیْقُ۔

الِیْقَطِیْنُ۔ بیل اس کا استعمال گول کرد
کے لئے زیادہ تر ہے۔

یَقِظُ یَقِظُ یَقِظًا وَ یَقِظُ یَقِظُ۔
یَقِظُ جَاکُن۔ محتاط ہونا چونکہ

ہونا۔ سمجھ دار ہونا۔ صفت۔
(یَقِظُ وَ یَقِظُ وَ یَقِظَانُ)



جَ اَيْقَاطُ مَوْنُثُ يَقْطَى جَ يَقَاطِي
اَيَقْطَ اَيْقَاطًا وَيَقْطَ تَيَقِيطًا
الغبار غباراً طحاناً — فلاناً
بیدار کرنا۔ جگانا۔
تَيَقِيطُ تَيَقِيطًا وَاسْتَيَقِيطُ -
استبقاطاً۔ بیدار کرنا
تَيَقِيطُ الْأَمْرِ - وہ معاملے پر متنبہ
ہوا۔ اِسْتَيَقِيطُ جگانا
الْيَقِطَةُ بیداری۔

أَبُو الْيَقْطَانِ مرغ -
يَقِي يَنْقُتُ يَقْنًا وَيَقْنًا - الْأَمْرُ
روشن و ثابت ہونا۔ صفت
يَقِيْنُ (وَأَيَقُنْ وَتَيَقُنْ
وَاسْتَيَقُنْ) الامرو بس
جاننا یقین کرنا۔

الْيَقْنُ وَالْيَقْنُ وَالْيَقْنُ وَالْيَقْنَةُ
وَالْيَقْنُ بَرَكَةُ بَرَكَةٍ بَاتٍ بَرَكَةٍ
لانے والا۔ مؤنث۔ مَيَقْنَةُ
— الْيَقْنُ فُكُّ كَا اِزَالَةُ -
رَجُلٌ يَقْنُ بِالشَّيْءِ کسی شے پر فریقہ
آدمی۔

الْيَقِيْنُ یقینی بات۔ بے شک و شبہ
علم جو دلائل سے حاصل ہو۔
حَقُّ الْيَقِيْنِ واضح اور بے شبہ
راستی۔ اَمْرٌ يَقِيْنٌ سچا
واضح کلام۔

يَلُّ وَيَلُّ يَلُّ يَلُّ يَلُّ وَيَلُّ
چھوٹے یا ہموار اور اندر کی جانب
گھسے ہوئے دانتوں والا ہونا۔
صفت۔ اَيَّلُ مَوْنُثُ سِلَاحٌ
جہاز۔ یل

الْيَلْبُ جِرْطَا - چرٹے کی ڈھال یا چرٹے
کی مینی زبردیں۔ چرٹے کی ٹوپیاں
واحد۔ يَلْبَةٌ
الْيَلْبُ فُلَاوٌ خالص لوہا ہر بڑی چیز

الْيَلْبُ سفید۔ اَبْيَضُ يَلْبُ وَلَهَقُ
و یقق — بہت سفید
الْيَلْقَةُ اَوَالِيْقُ - سفید کبری۔
الْيَلْمُ قَبَا - جہز۔ سِلَاحٌ
الْيَلْنَجُجُ وَالْأَلْنَجُجُ وَالْيَلْنَجُجُ
وَالْأَلْنَجُجُ - صندل کی لکڑی
يَمَّ يَمَّ يَمَّ سَمْدَرِيں پھینکا جانا
السَّاعِلُ - ساحل کا سمندر کے نیچے آنا
يَمَّمَهُ قَصْدُكَ - ارادہ کرنا۔

يَمَّمُ الْمَرْيُضُ لِلصَّلَاةِ
بیمار کو نماز کے لئے تیمم کرنا۔
فَلَا تَأْخُذْ بِحَدِّهِ کسی خاص آدمی کو
بیزرے کا نشانہ بنانا۔
تَكِيَمُ الْأَمْرُ امْرِيًا قَصْدُكَ
— لِلصَّلَاةِ نماز کے لئے مٹی
مے ہاتھ منہ پر مسح کرنا۔ الْيَمَّةُ
سمندر۔ ساپ۔

(وَالْيَمَمُ) جنگلی کبوتر۔
الْيَمَاهُ جَنْجَلِي كَبُوتَرٌ قَصْدُ - ارادہ
الْيَمَامَةُ فَاخَةٌ - قصد
اِمْنِي يَمَامَتِي میرے آگے چل
الْيَمَامَةُ مَطَالِبِيں کا میاب۔

يَمَمٌ وَيَمَمٌ يَمَمٌ يَمَمٌ وَيَمَمٌ
سیدھی جانب سے آنا۔ يَمَمًا -
اللَّهُ. فَلَا كَلِمَا رَكَّ بَنَانَا - صفت
مفعولی (وَمَيُّوْنُ) صفت فاعلی
(يَا مِْنْ وَيَمِيْنُ)

يَمَمٌ يَمَمٌ وَيَمَمٌ يَمَمٌ وَيَمَمٌ
دِیَا مِْنْ يَمَامُونُ مَيَا مَمَةً -
یہ دائیں طرف لے جانا
يَمَمٌ يَمَمٌ وَيَمَمٌ يَمَمٌ وَيَمَمٌ
یَا مَمٌ وَيَمَمٌ يَمَمٌ وَيَمَمٌ
يَمَمًا وَمَيَمَةً يَقُوْمُهُ دَعَى قَوْمُهُ
بارکرت ہونا۔ خوش قسمت ہونا
صفت (يَا مَمٌ وَيَمَمٌ وَيَمَمٌ وَيَمَمٌ)

وَمَيُّوْنُ) -
يَمَمٌ - علیہ - برکت دینا۔

(وَيَا مَمٌ) يَمَمٌ دَائِيں
جانب لے جانا۔ وَيَا مَمٌ وَيَمَمٌ
وَأَيَمَمٌ) دَائِيں طرف لے جانا
مَلِكٌ مِْنْ كِي طَرَفٌ جَانَا - مَلِكٌ مِْنْ
جانا۔

تَيَمَمٌ يَكْنَا بَرَكَةً لِيَا - نیک
فال لینا۔ مِْنْ كِي طَرَفٌ مُسَوَّبٌ ہونا
بالمیت۔ مردہ کو قبر میں دائیں سپرد
رکھنا۔ الرَّجُلُ - آدمی کا مرنا دائیں
ہاتھ یا پاؤں سے کام شروع کرنا۔
اِسْتَيَمَمَ اِسْتَيَمَانًا - بکن برکت حاصل
کرنا۔ قَمِّ دَلَانَا۔

الْيَامُ بَرَكَةُ وَالَا - مَوْنُثُ يَامَمَةً
الْيَمَمُ بَرَكَةُ -

الْيَمَمُ وَالْيَمَمَةُ دَائِيں جانب
الْيَمَمُ مَلِكٌ مِْنْ - نسبت کے لئے
الْيَمَمِي وَالْيَمَامِي وَالْيَمَامِي جہز
يَمَمِيُونُ وَيَمَامُونُ وَيَمَامِيُونُ
الْيَمَمِيُونُ جَ اَيَمَمٌ وَيَمَامٌ وَيَا مَمٌ
وَأَيَا مَمِيْنُ - دایا ہاتھ۔
دائیں جانب۔ تَصْغِيرُ - يَمَمِيْنُ جہز
يَمَامِيْنُ۔

الْيَمَمِيْنُ جہز۔ اَيَمَمٌ وَأَيَمَامٌ قَمِ
مَوْنُثُ اَيَمَمٌ اللّٰهُ اَمِ ہے قسم کے لئے
دفع ہوا ہے اس کی تقدیر اَيَمَمٌ
اللّٰهُ قسمی ہے۔ اس میں بہت سے
لغات ہیں اَيَمَمٌ اللّٰهُ - اَيَمَمٌ اللّٰهُ
وَأَيَمَمٌ اللّٰهُ اور اُسی کے ہم معنی ہیں۔
اَيَمَمٌ اللّٰهُ وَأَيَمَمٌ اللّٰهُ
(تثنية الميم) ومن اللّٰهُ ميم اور
نون کی تثنية سے دہر اللّٰهُ ميم
کی تثنية سے۔

الْيَمَمِيْنُ جہز اَيَمَامٌ - بَرَكَةُ قَوْتِ



یُوحَ وَیُوحَی - سورج -
 یَا وَمَہ یَوْمًا وَمِیَا وَمَہ - دنوں کی
 مزدوری پر رکھنا -
 الیومہ - فجر سے غروب آفتاب کا وقت -
 وقت - کہتے ہیں ذَخَرْتُكَ لِهَذَا
 الیومہ - تم کو میں نے اسی وقت کے لئے
 ذخیرہ بنایا تھا - ج - آتَا مُد
 حج آتَا وَیَم - آتَا اَللّٰہُ خدَا
 کے دن یعنی خدا تعالیٰ کے انعامات
 و سزائیں - آتَا مُد الْعَرَبِ عربوں
 کی لڑائیاں اِبْنُ الْاِیَّامِ زمانہ شناسی
 اِبْنُ الْیَوْمِ زمانہ ساز - یَوْمُ
 اَبُو مُد مہینہ کا آخری دن -
 یَوْمُ اَبُو مُد و یَوْمُ وَاوَمُ و
 ذُو اِیَّامُ و ذُو اِیَّامُ دِیَم - و
 ذُو اِیَّامُ یَم مصیبت کا لمبا دن
 الیونان یونانی لوگ -
 ایک ملک کا نام -
 یُونَانِ یونان کا باشندہ - ج -
 یُونَا نِیُون -
 الیادق - یاد کی طرف منسوب
 الینمیۃ - خود
 ییا تیلیۃ - الیاء - حرف یاد
 لکھنا -

الیئم - ایک قسم کی نباتات
 اَیْہَاتَا - اَیْہَاتَا - اللحم و گوشت کا
 بدبودار ہونا -
 اِسْتِیْہَمَ بے عقل ہونا - فی الْاَمْرِ یقین کرنا
 اصرار کرنا - ضد کرنا - بِالْاَمْرِ
 یقین کرنا -
 الیھم و الیھم کشادہ منہ کسی امر میں ضد و
 اصرار -
 الیھم - سراب - سخت پتھر - لجاجت
 جھوٹ - اندرائن - زہر
 الیھم - بہت پانی - باطل
 الْمُسْتِیْہِمُ فَا - بہت لجاجت کرنے والا -
 الیھم بزدل - احمق - چٹیل زمین -
 ہوشیار و بیدار دل -
 الیھم - جنون - الایھم پاگل -
 بیوقوف - خشکی - بلند پہاڑ - بہرا ،
 دلیر و بہادر آدمی - چکنا پتھر بے نشان
 شمر - نِلْ اَیْہَم بے تار و ل کی رات
 مؤنث یھماء ج یھم -
 الیھماء بے آب و بے نشان راو بیان
 سنت لنگی کا سال مضبوط اوٹنی -
 اَرْضُ یھماء بے اثر و نشان اور
 بے چراگاہ زمین -
 سُنُوْہُ یھم بے آب و گیاہ سال

فُلَانٌ عِنْدَنَا بِالْیَمِیْنِ فلاں ہمارے
 نزدیک اچھے رتبہ پر ہے -
 الیُمی - دائیں طرف - دایاں عضو - تثنیہ :
 یُمَنِیَان ج - یُمَنِیَاتُ
 الیمنۃ و الیمنۃ - یمن کی دھاری دار چادر
 الایمن - دایاں پہلو یا عضو - مؤنث -
 یَمْنَاء ج یَمْنٌ وَاِیَّامٌ
 الیمن جنوب -
 الیمنۃ برکت - فوج کا دایاں بازو -
 دایاں پہلو - ج - مِیَا مِیْن
 الیمنۃ برکت لانے والا
 المیمون مبارک ج - مِیَا مِیْن
 کہتے ہیں ہومیمون الطائر وہ مبارک
 چہرے والا ہے سر علی الطائر المیمون
 تم توفیق کے ساتھ سفر کرو دعا ہے -
 الیمنۃ ایک پردہ یَنْبُوعُ چشمہ
 الیاسون ایک قسم کی خوشبودار نباتات
 یَنْعَ یَنْعَ و یَنْعَ یَنْعَا و یَنْعَا و
 یَنْعَا وَاِیَّامٌ - اثر - پھل کا پکن -
 صفت یَا نَع ج - یَنْعَ و یَنْعَ
 الیَا نَع - سُرخ چیز
 الیسوع خون کی سُرخ - اَلِیْسَعُ
 سُرخ مہر - واحد یَنْعَتَا عقیق کی
 ایک قسم -

تَمَّتْ



ادبی جواہر پارے یعنی عربی امثال اور اقوال حکمت

محاورات و امثال اور وہ اقوال حکمت جواہر زبان میں رائج ہوتے ہیں وہ اس زبان کے لین ادب کی جان شمار کئے جاتے ہیں۔ اس زبان میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان محاورات و امثال کا برمحل اور مناسب استعمال فصاحت بیان اور بلاغت کلام کی بنیاد ہے اور اس زبان پر ادراستلوب بیان پر غور کی دلیل ہے اس لئے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس لغت میں عربی کی ضرب الامثال اور ان اقوال حکمت کو بھی شامل کیا جائے جن کو عربی ادب استعمال کرتے رہے ہیں تاکہ عربی اسلوب بیان پر قدرت حاصل کرنے کے لئے ان سے فائدہ اٹھایا جاسکے اس سلسلے میں جو اقوال و امثال جمع ہو سکے ان کو افادیت میں ضابطہ اور انیل کتاب کے نقطہ نظر سے اس لغت میں شامل کر دیا گیا ہے۔

ان اقوال و امثال کے حسن انتخاب اور ان کے طرز و طریق کو قریب تر کرنے کے لئے بڑی محنت اور اہتمام سے کام لیا گیا ہے ان کی اصل اور متعلقہ معلوما بھی پیش کر دی گئی ہیں تاکہ ان سے استفادہ میں سہولت پیدا ہو اور ان سے مقصد سہولت پیدا ہو جائے اس انتخاب میں صرف انھیں امثال کو پیش نظر رکھا گیا ہے جو فصیح عربی میں رائج ہیں اور ان میں سے صرف انھیں کو منتخب کیا گیا ہے جو نسبتاً کم مشقت طلب مغز و ذہنی کے اعتبار سے صحیح اور مناسب اور فائدہ کے لحاظ سے زیادہ موزوں ہیں۔ ہر مثال کے شروع میں نمبر شمار دیا گیا ہے اور اس مشکل مثال یا قول کے ساتھ جس کے عرض و مقصد کے سمجھنے میں کچھ دشواری پیش آ سکتی ہے ضروری تشریح بھی کر دی گئی ہے اور اس سلسلے میں عربی لغت و ادب کے زندہ جاوید ادباء و ادباء آئمہ نعت حریری، ابوالفضل میدانی اور ابوہلال عسکری وغیرہ مصنفین کی کتابوں سے مدد لی گئی ہے عربی امثال کے ساتھ جا بجا ان کے ہم معنی اردو زبان کی ضرب الامثال کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔

امثال و اقوال کی ترتیب حروف تہجی کے مطابق ہے۔ کوئی مثال تلاش کرنا ہو تو سب سے پہلے اس مثل کے پہلے لفظ کی اصل پر غور کرنا چاہیے اور پھر اصل کلمہ کے ابتدائی حرف کی تختی میں اس مثل کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر پہلے لفظ کے شروع میں کوئی حرف اسم موصول، اسم اشارہ، حرف استفہام، فعل ناقص یا کوئی ایسا لفظ ہو جو بذات خود کوئی مستقل معنی نہ رکھتا ہو بلکہ بعد کے لفظ کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہو جیسے الفاظ ”کل“، ”بعض“، ”قبل“ اور ”بعد“ وغیرہ تو اس کو الگ کر کے اصل ابتدائی لفظ کا اعتبار کرنا چاہیے۔ یہ ابتدائی لفظ اگر مجرد ہے تو اس کے پہلے حرف کے باب میں اس سے متعلق مثل یا قول تلاش کیجئے اور اگر ابتدائی لفظ مزید ہے یا اس میں سے کچھ مخدوف ہے یا اس کے حرف تبدل یا متغول ہیں تو اس لفظ کو پہلے مجرد کیجئے یا اس کو اپنی اصل (مادہ) کی طرف لوٹائیے پھر اس کے حروف اصلی کے اعتبار سے پہلے حرف کی تختی میں تلاش کیجئے سہولت کے لئے ایسے لفظ کو جس کے حرف اصلی کے ابتدائی حرف کا ترتیب بن لحاظ رکھا گیا ہے تو سین کے درمیان لکھا گیا ہے۔ اس قاعدہ کے مطابق امثال ذیل آپ کو ذیل کے ابواب میں ملیں گی :-

باب الف :- کلُّ رَأَتْ قَرِيبَ (لَاخِيكَ) عَلَيْكَ مَثَلُ الَّذِي لَكَ عَلَيْهِ (مَارِبَةٌ) (لَاخْفَاؤُهُ رَحْمَةً) مِنَ الرَّسْفَةِ مَا عَلِيًّا (۱)
باب خ :- مع (الْخَوَالِجِ) سَهْمٌ صَائِبٌ - من (خطب) الحسنة يعطى مهرها (لاخيبي) من حنين - (لاخيبي) في السرف ولا سرف في الخير -

باب ش :- (اشأم) من بسوس - رب (شائنة) أحسن من أم
باب ع :- (اشأم) من بسوس - رب (شائنة) أحسن من أم
باب غ :- عَسَى رَعْدٌ (لِغَيَرِكَ) - من رَعْدٍ (مِنْ لَاشَيْءٍ رَفِيٍّ مِنْ لَاشَيْءٍ)
باب ه :- قَدْ كَانَ ذَلِكَ (مَرَّةً) خَالِيَوْمَ لَا - كل امرئ يحتطب بحبله - رَبُّ أُمْنِيَةٍ جَلَبَتْ مَتْنِيَةً
باب و :- لَمَّا رَجِدْ لَشَعْرَةٍ مَحْزَا - (تَسْعُ) الْخَرَقُ الرَّائِقُ (رَضَعُ) الْفَاسُ فِي الرَّاسِ (۲)



الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بولاجاتا ہے جب بڑے شمر سے پہلے اس کے مقدمے کے طور پر چھوٹا شر آچکا ہو۔ خَالِئِشْمَاً ایک چنگیر اکیڑا ہے جو سانپ اور بچوں کے بل کے ابتدائی حصے میں رہتا ہے۔

۷۔ یَا نَبِیُّکَ کُلِّ عَنِّ بِمَا فِیْہِ۔

(آنے والی کل تیرے پاس وہ لائے گی جو اس میں ہوگا) یعنی کل وہی دکھائے گی جو ہونے والا ہے۔

۸۔ دِیَا تِیْثَ بِالْاِخْبَارِ مَنْ لَّمْ تَزِدْ

(تیرے پاس وہ شخص خبر لے آئے گا جس کو تو نے مقرر نہیں کیا) یہ اس وقت بولاجاتا ہے جب کہ کسی خبر کو حاصل کرنے کے لئے درمیت کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور خبر خود بخود مل جائے یا سننے کی توقع ہو۔ یہ طرۃ کے شعر کا مصرع ثانی ہے پورا شعر یہ ہے

سَبُّدِیْ لَکَ الْاِیَّامُ مَا کُنْتَ جَاهِلًا

دِیَا تِیْثَ بِالْاِخْبَارِ مَنْ لَّمْ تَزِدْ

(زمانہ تجھ پر وہ چیز ظاہر کر دے گا جس سے تو بے خبر ہے اور خبر تیرے پاس وہ لے کر آئے گا جس کو تو نے مقرر نہیں کیا)

۹۔ لَا تِیْثَ حَتّٰی یُؤَبَّ الْقَارِطَانِ

(میں تیرے پاس اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک قارظ نہ لوٹ آئیں) قارظ۔ سلم نامی درخت کے پتے توڑنے والے کو کہتے ہیں۔ ان پتوں سے چھڑا رنگا جاتا ہے۔ کہتے ہیں قبیلہ عنزہ کے دو شخص پتے توڑا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں پتے توڑنے گئے تھے اور پھر نہ لوٹے۔

۱۰۔ لَا تِیْثَ سِوَ الْحَسَنِ۔

(میں تیرے پاس اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ گوہ کے دانت نہ ٹوٹ جائیں) مطلب یہ ہے کہ کبھی نہیں آؤں گا کیونکہ حسنؑ گوہ کو کہتے ہیں اور گوہ کے دانت کبھی نہیں ٹوٹتے

۱۱۔ کُلُّ اَیِّ قَرِیْبٍ

(ہر آنے والی چیز نزدیک ہے) یعنی جو چیز آنے والی

۱۔ اِبِلٰی لَمْ اَبِیْعَ وَلَمْ اُھَبْ۔

اونٹ میرا، نہ میں نے بیچا، نہ بخشا یہ ظالم سے اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ ایسی چیز پر جھگڑا کرے جس پر اس کا کوئی حق نہ ہو۔

۲۔ یَا رِبِّیْ تُخَوِّدِیْ اِلٰی مَبَارِکَ

(اے میرے اونٹ اپنے بارے کی طرف لوٹ جا) یہ اس شخص سے کہا جاتا ہے جو کسی ایسی چیز سے گریز کرے جس میں اس کی بھلائی ہو اور جو اس کے لئے ضروری بھی ہو۔

۳۔ اَتٰی عَلَیْھِمُ ذُّوَا قٰی

(ان پر بھی وہی گھبراہٹ آ رہی ہے) یہ نوطے کا محاورہ ہے اس قبیلہ کی زبان میں ذُّوُ یعنی اَلَّذِی استعمال ہوتا ہے مثال کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح دوسرے لوگوں پر موت اور زمانہ کے حادثات آتے رہتے ہیں ان پر بھی اسی طرح کے حادثات آئے

۴۔ اَتَاكَ رَیَّانٌ یَلْبَسُہِ

(پی کر چھک گیا تو اپنا دو دھتیرے پاس لایا) یہ مثال ایسے وقت دی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی چیز کو کم و سزا دے کی بنا پر نہ دے بلکہ ضرورت سے زیادہ ہونے کی بنا پر کسی کو بخش دے۔

۵۔ اَتَتَّلَتْ بِحَاسِنٍ رَجُلًا

(خان کو خود اس کے قدم تھامے پاس لے آئے) مطلب یہ ہے کہ بڑائی خود کرنے والے پر ہی لوٹتی ہے۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف جاتا ہے۔ اسی موقع پر اَتَتَّلَتْ بِحَاسِنٍ رَجُلًا بھی بولتے ہیں۔ یہ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بڑائی کی طرف چلتا ہے اور اس میں مبتلا ہو جاتا ہے حَاسِنٌ وہ شخص جس کی موت کا وقت آگیا ہو۔ یہ مثالیں ایسے موقع پر بولی جاتی ہیں جب آدمی کا اپنا عمل ہی برے انجام کا سبب ہو جائے۔

۶۔ اَتَشْکُرُ قَالِیْئَہُ الْاَخَاعِیْ

(تھمارے پاس سانپوں کا پیش خیمہ آچکا ہے) یہ اس وقت

جاتا ہے مگر کوئی دوا اس کو موافق نہیں پڑتی تب آخری علاج کے طور پر داغ دیا جاتا ہے اس سے بھی تندرست نہ ہو تو پھر کوئی علاج باقی نہیں رہتا۔ اچھا ہوا تو ہوا اور نہ وہی موت ہے۔

۲۱- آخِرُ الْأَكْفَادِ دَا هِنَ الْأَسْدَاءِ

(ساتھیوں سے بھائی چارہ کے ساتھ پیش آؤ اور دشمنوں سے ظاہری اخلاق کے ساتھ ملو) اسی طرح ایک قول ہے مَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ الْفَاجِرُ (مومن سے غلو ص کے ساتھ اور ظاہر سے ظاہری اخلاق کے ساتھ ملو۔)

۲۲- أَخُوكَ أَدِرَ الْيَتِيمِ

(وہ تیرا بھائی ہے یا بھیلڑیا) جو شخص تیری بہرہ دہی کے لئے آیلہ ہے وہ تیرا بھائی ہے یا تجھے تکلیف دینے کے لحاظ سے بھیلڑیا ہے اسی طرح بولا جاتا ہے اصَا حُبُّ اَنْتَ كَا وَكُنْ اَيْدِكَ اَمْرٌ عَدُوٌّ فَآخِذْ مِنْكَ (آیا تو دوست ہے کہ تیری طرف مائل ہوں یا دشمن ہے کہ تجھ سے بچوں)۔

۲۳- أَخُوكَ مَنْ صَدَقَكَ

(تیرا بھائی وہ ہے جو تجھ سے مخلصانہ محبت کرے)

۲۴- أَخُوكَ مَنْ وَاسَلْتَ يَنْشِبُ لَكَ مِنْ دَا سَاكَ بَلَسِبَ

(تیرا بھائی وہ ہے حوال سے تیری مدد کرے نہ وہ جو شخص تیری قربت ہی کا ذکر کرے) دَا سَاكَ بمعنی آساک ہے یعنی اعانت ادا کرنا

۲۵- اِنَّ أَخَا الْهَيْجَاءِ مَنْ يَسْتَعْلِي مَعَلَّاتٍ

(جنگ جو وہ ہے جو تیرے ہمراہ دڑتا رہے)۔

۲۶- اِنَّ أَخَاكَ مَنْ آسَاكَ

(تیرا بھائی وہ ہے جو تیری اعانت کرے) اَسَيْتُ فَلَا تَا بَعَالِي اَوْ غَيْرُكُ اَيْسے موقع پر کہا جاتا ہے جب کسی شخص کو مال دے کر اپنے برابر کر لیا جاسے اور اپنے نفس پر اس کو ترجیح دی جائے یہ بھائیوں کے ساتھ احسان کرنے پر براگینہ کرتے کے لئے بولا جاتا ہے۔

۲۷- لَا خِيْلَكَ عَلَيْكَ فَتَلَّ الَّذِي لَكَ عَلَيْهِ

(تیرے بھائی کا تجھ پر وہی حق ہے جو تیرا اس پر ہے)۔

۲۸- دُبَّ آخِرَ لَمْ تَلِدْ دَا الْبَدَا

(بہت سے بھائی ایسے ہیں جو ماں جائے نہیں ہوتے) بچے دوست کے لئے

کہا جاتا ہے جو بعض اوقات حقیقی بھائی سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے۔

ہے وہ خواہ کتنی ہی دور ہو قریب ہی ہے اور ہر لمحہ قریب ہوتی جاتی ہے۔

۱۲- ذَاكَ اَحَدُ الْاَحَدَيْنِ

(دیکھو دیکھاؤں میں کا ایک ہے یعنی منتخب چیزوں کا انتخاب)۔

۱۳- اَحَدًا كَا بِرْمَتِهِ

(اس کو کئی طور پر لے لیا) رمتہ پرانی رسی کے ٹکڑے کہتے ہیں یہ مثل ایک واقعہ سے ماخوذ ہے کسی شخص نے ایک اونٹ پرانی رسی سمیت کسی کو دے دیا تھا اسی سے مثل بن گئی۔ اب کوئی چیز محبوبی طور پر لی جائے تو کہا جاتا ہے اَحَدًا كَا بِرْمَتِهِ اور پوری پوری محبوبی طور پر دی جائے تو کہا جاتا ہے دَقَعَهُ اِلَيْهِ بِرْمَتِهِ

۱۴- قَدْ يُؤْخَذُ الْجَارُ بِذَنْبِ الْجَارِ

(کبھی پڑوسی کے گناہ میں پڑوسی پکڑا جاتا ہے)

۱۵- خُذْ مِنَ الرَّصَفَةِ مَا عَلَيْهَا

(پتھر پر جو کچھ لگا ہوا اس کو ہی لے لو) بھاگتے چور کی تلگوٹی ہی یہی رَصَفَةٌ وہ پتھر ہے جس کو گرم کر کے دودھ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ دودھ گرم ہو جائے۔ اس پتھر پر دودھ کی چکنائی وغیرہ لگ جاتی ہے۔ یہ مثل اس وقت دی جاتی ہے جب بخیل سے کوئی معمولی چیز بھی غنیمت سمجھی جائے۔

۱۶- خُذْ اَلْأَمْرَ بِقَوَّائِلِهِ

(معاملہ کو اس کے مقدمات کے ساتھ لو) معاملے کے پیش آنے سے پہلے

اس کی تدابیر اختیار کر۔ اس میں بار معنی فی ہے یعنی بِقَوَّائِلِهِ

معنی فی بِقَوَّائِلِهِ ہے۔

۱۷- خُذْ مِنَ الدَّهْرِ مَا صَقَاوَمِنَ الْعَيْشِ مَا كَفَى

(زمانہ سے وہ چیز لو جو صاف ہو اور روزی اتنی جو کافی ہو)۔

۱۸- خُذْ مَا طَفَّتْ لَكَ

(جو چیز قریب ہو اس کو لے لو)

۱۹- لَا تُؤَخَّرْ عَمَلُ الْيَوْمِ لِعَدَا

(آج کے کام کو کل پر نہ ٹالو)

۲۰- آخِرُ الدَّاءِ لُكِّيْ

(مرض کی انتہا داغ دینا ہے) مرض کے انتہائی حد تک پہنچ جانے کے

وقت بولتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مرین کا ہر قسم کی دوا سے علاج کیا

۲۹۔ اَدَبُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِّنْ ذَهَبِهِ

(آدمی کا ادب اس کے سونے سے بہتر ہے)

۳۰۔ اَلْاَدَبُ مَالٌ وَّاسْتِعْمَالُ كَمَالٍ

(ادب مال ہے اور اس کا استعمال کمال ہے)

۳۱۔ نَعِمَ الْمُؤَدَّبُ اَلدَّهْرُ

(زمانہ بہترین ادب سکھانے والا ہے)

۳۲۔ مَا رَسَبْتُ اِلَّا حَقًّا وَكَافًا

(حاجت سبب ہے نہ کہ کرام) یعنی اکرام و احترام ضرورت کی بنا پر

ہے محبت کی وجہ سے نہیں۔ سلام روستائی بغیر منیت

۳۳۔ اَلْاَرْضُ الْبَاهِطَةُ لَشَرِّبٍ مَّا نَهَا وَمَاءٌ غَيْرُهَا

(پانی زمین پر گرا ہوا پانی بھی پی جاتا ہے اور دوسرے کا بھی)

مفسد طور پر گرم کر کھا جاتا ہے!

۳۴۔ يَا لَآ رُفِي وَلَدْتُكَ اُمُّكَ

(تیری ماں نے تجھے زمین ہی پر تو جنم دیا ہے) آدمی خاک کا پتلا ہے

عز و تکریم سے روکنے اور اعتدال اختیار کرنے کی ترغیب دینے کے لیے

۳۵۔ اِلِلْاَرْضِ مِنْ كَانَسِ الْكِبَرِ نَصِيبٌ

(سنی لوگوں کے پیالے میں زمین کا بھی حصہ ہے) سنی کے مال میں

سب کا سا حجاب

۳۶۔ وَفِي الْاَرْضِ لِلْجَحْرِ الْكَرِيمِ مَنَادٌ

(خدا کی سرزمین میں شریف آدمی کے لئے بڑی گنجائش اور روزگار کے

موقعے ہیں)

۳۷۔ لَا اَصْلَ لَهُ وَلَا فَصْلَ

(وہ خاندانی شرافت ہے جسے گفتار) اصل حسب نسب کو اور فصل

زبان اور گفتگو کر سکتے ہیں)

۳۸۔ اَلْاَصِيلُ يَجُودُ

(شریف آدمی سخاوت کیا کرتا ہے)

۳۹۔ اَلْاَصِيلُ يَعْمَلُ بِاَصْدِهِ

(شریف اپنی شرافت کے مطابق عمل کرتا ہے)

۴۰۔ اَخْتَةُ الْعِلْمِ النَّسِيَانُ

(بھولنہ علم کی نصیبیت ہے)

۴۱۔ اَكَلْ عَلَيْهِ السَّهْلُ وَشَرِبَ

(ایک زمانے نے اس پر کھایا پیلا ہے یعنی بزرگوار اور کھایا کھینچا آدمی ہے)

۴۲۔ اَكَلْتُمْ نَعْرُجِي وَعَصَيْتُمْ اَمْرِي

(تم نے میری کھجوریں کھائیں اور میری ہی نافرمانی کی کسی کی نکرانی کے موقعے

پر کھا جاتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا مقولہ ہے)

۴۳۔ اَكَلُ لَحْيِي وَلَا اَذْعُلُهُ لِاَكْلِي

(میں اپنا گوشت خود ہی کھاؤں گا کسی دوسرے کے لئے نہ چھوڑوں گا)

یہ مثال اس شخص کے بارے میں دی جاتی ہے جو اپنے آپ کو باشرۃ داروں

کو خود ہی تکلیف پہنچانے کی غیر کو نہ پہنچانے والے۔ اس مثل کا مطلب

یہ بھی ہوتا ہے کہ جنبی کے مقابلے میں رشتہ داروں کی امداد کرنی چاہئے

خواہ رشتہ دار کے ساتھ دشمنی ہی کیوں نہ ہو۔

۴۴۔ يَا كُلُّ الشَّيْءِ اُرْجَحُ بِالنَّوَى

(کچھ روکھا رہا ہے اور گھٹیاں مجھے مایہ جارہی ہیں) اس شخص کے لئے بولا جاتا

ہے جو نفع خود اٹھائے اور مشقت دوسروں کے لئے چھوڑ دے۔

۴۵۔ يَا كَلْبِي سَبِّحْ وَلَا يَا كَلْبِي كَلْبُ

(مجھے ایک زندہ کھارہ ہے کتے نہیں کھا رہا ہے)

۴۶۔ يَا كَلْبُكُمْ بِصُرُوسٍ وَيَطُوكُهَا بِطَلْفٍ

(اس کوڑاڑھوں سے چباتا ہے اور تم سے کچل رہا ہے) عمن کے

ساتھ برائی کرنے کے وقت بولا جاتا ہے۔

۴۷۔ يَا كُلُّ بِالْقُرْبَى الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ

(وہ اس کوڑاڑھ سے کھاتا ہے جو پیدا نہیں ہوئی) اس شخص کے لئے بولا

جاتا ہے جو بغیر احسان کے اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے۔

۴۸۔ غَيْرِي يَا كُلُّ الدَّجَاجِ وَاَنَا اَقْحُ فِي السَّيَاحِ

(دوسرے مرغیاں کھائیں اور میں جھاڑی میں پڑوں)

۴۹۔ اَكْلٌ دَحْمٌ خَيْرٌ مِّنْ اَكْلٍ وَصَمْتٌ

(کھانا اور تعریف کرنا کھانے اور خاموش رہنے سے بہتر ہے عمن کی

تعریف پر اُجھارنے کے لئے بولا جاتا ہے)

۵۰۔ اَكْلًا وَدَمًا

(کھانا اور پھونڈت بھی کرنا) اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز سے نفع بھی

اُٹھایا جائے اور اس کی مذمت بھی کی جائے حالانکہ وہ برائی کی مستحق

نہ ہو۔ "کھانا اور کیڑے کھانا"

۵۱۔ رَبِّ اَكْلَةٍ تُمْنَعُ اَكْلَاتٍ

۶۳۔ اَمْ سَقَاتَ الْغَيْلَ مِنْ عَيْنِ جَلٍ

ردہ ایسی ماں ہے جس نے بغیر حمل کے بچہ حالت حمل کا دودھ پلایا ہے
غیل۔ اس دودھ کو کہتے ہیں جو ماں کے حاملہ ہونے کی حالت میں بچہ
پئے۔ یہ دودھ بچہ کو مضر ہوتا ہے۔ یہ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے
جو بچہ تو کسی کو مقرب بنا لے اور پھر بغیر کسی قصور کے اس کو نکال دے
اور زیادتی کرے۔

۶۴۔ اِلَىٰ اٰمِهِمْ يَنْهَضُ اللَّهْفَاتُ

(فریاد کرنے والا اپنی ماں ہی کے پاس فریاد کرتا ہے، آدمی اپنے اہل
اور بھائیوں ہی سے اعانت چاہتا ہے۔ کہناتان مصیبت زدہ اور
مبتلائے افسوس کو کہتے ہیں۔

۶۵۔ اَلَا هُمْ يَعْرِضُونَ دُورَهُمُ الْاٰهَرُ

(ایک امر سے پہلے دوسرا امر پیش آجاتا ہے) مشکلات اور مواع
پیش آنے کے لئے بولا جاتا ہے۔
۶۶۔ اَمْ مَّبْكِيًا تَلِكُ لَا اَمْرٌ مَّضِيحٌ كَانَتْ

رہناتے والی باتوں کا خیال رکھو نہ کہ اپنے ہنسانے والی باتوں کا اپنی
اس شخص کی بات سنبھالو نہ کہ اپنی باتوں کا انجام ظاہر کرے تاکہ ان
برائیوں سے نجات پاسکو۔ اس کا کہنا نہ مانو جو تمہیں خطرات سے بالکل
بے خوف کر دے اور بھنور میں پھنسا دے۔

۶۷۔ لَا هُمُ مَّا حَيَّعَ قَصِيرٌ اَنْفُسًا

(کسی مقصد کے لئے ہی قصیر نے اپنی ناک کاٹی ہے) اس شخص کے لئے کہا
جاتا ہے جو اپنا مطلب نکالتے کے لئے کوئی جید اختیار کرے یہ زبا
کا مقولہ ہے جس نے اپنے باپ ریان غسانی شاہ خضر کے انتقام میں اسی
کے قاتل جذیمہ ابرش کو قتل کر دیا تھا قصیر نامی جذیمہ کے وزیر نے زبا
سے جذیمہ کے خون کا انتقام لینے کے لئے اپنی ناک کاٹی اور جہم پر مار کے
نشانہ لگائے اور زبا کو یہ فریب دیا کہ جذیمہ کے بھانجے غرو نے اس
پر ظلم کیا ہے اس کی نپاہ حاصل کی زبا کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد قصیر نے
موتیہ پا کر تجارتی سامان کی بوریوں میں مسیح سپاہی چھپائے اور زبا کے
محل کا محاصرہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ زبا کو جب قصیر کا یہ جلیل معلوم ہوا تھا
تو اس نے یہ مثال کہی تھی۔

۶۸۔ لَا هُمُ مَّا يُسُودُ مِّنْ يُّسُودٍ

(جو سردار نیتا ہے کسی دہریہ سے نیتا ہے) کوئی شخص استحقاق ہی کا دہریہ سے

دکھی ایک لقمہ بہت سے لقموں کو روک دیتا ہے کیونکہ کبھی ایک لقمہ
پیارا کر دیتا ہے اور پھر بہت سی چیزوں سے مریض محروم ہو جاتا ہے۔
پرسین پر آمادہ کرنے کے لئے بولتے ہیں۔

۵۲۔ اَكَلُ مِنْ حُوتٍ (مچھلی سے بھی زیادہ کھانے والا)

۵۳۔ اَكَلُ مِنَ الرَّحَىٰ (رچی سے بھی زیادہ کھانے والا)

۵۴۔ اَكَلُ مِنَ السُّوسِ (رگھن سے بھی زیادہ کھانے والا)

۵۵۔ اَكَلُ مِنْ ضَرْسٍ (ڈارمہ سے بھی زیادہ کھانے والا)

۵۶۔ اَكَلُ مِنَ النَّارِ (آگ سے بھی زیادہ کھانے والا)

۵۷۔ حَتَّىٰ يُوَلِّفَ بَيْنَ الصَّنْبِ وَالْمَوْنِ

(دیکھاں تک کہ گروہ اور مچھلی جمع ہو جائیں۔ نون مچھلی کو کہتے ہیں مچھلی اور
گروہ ہرگز جمع نہیں ہو سکتیں کیونکہ مچھلی پانی میں رہتی ہے اور گروہ کبھی پانی
نہیں پیتی اسی طرح حَتَّىٰ يُوَلِّفَ بَيْنَ الصَّنْبِ بولتے ہیں کیونکہ گروہ کو پانی
کی ضرورت نہیں تعلیق بالجمال مراد ہے۔ جیسے جب تک آگ پانی یا شیر
کبھی جمع نہ ہوں۔

۵۸۔ اَلَفَتْ مِنْ حَمَاهِمُ مَكَّةَ

(مکہ کے کبوتر سے بھی زیادہ مانوس) کیونکہ مکہ میں نہ کبوتر کا شکار کیا جاتا
ہے اور نہ اس کو کوئی پریشان کرتا ہے۔

۵۹۔ اَلَفَتْ مِنَ الْحَيِّ

(بخار سے بھی زیادہ مانوس) بخار کا عرصہ ممد ہو جاتا ہے تو مرعین پر پیر
اور علاج کرتا ہے اور جب اس کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اب بخار
دور ہو گیا تو بخار پھر لوٹ آتا ہے۔

۶۰۔ اَلَفَتْ مِنْ كَلْبٍ

(دکھتے سے زیادہ مانوس) کیونکہ جب صاحب نہ سفر کرتا ہے تو دوسرا کوئی
جانور اس کے ہمراہ نہیں جاتا بلکہ صرف کتا جاتا ہے اور وہ اپنے وطن
کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے ہمراہ جاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے۔

۶۱۔ اَمْ فَدَشَتْ قَانَا مَتَّ

(گویا ماں ہے کہ بچہ بنا بچھا دیا اور سلا دیا) اس شخص کے بارے میں
بولا جاتا ہے جو کسی قوم پر مہربانی اور شفقت کرنے میں مبالغہ کرے
گویا کہ وہ ماں ہے کہ اس نے بچے کے لئے بستر بچھا دیا اور پتھر سوگیا

۶۲۔ اَمْ اَلْاُخْرَىٰ تَعْرِفُ بِلُغَاتِ الْاُخْرَىٰ

(کوئی لگے کی ماں گونگے کی لغت خوب جانتی ہے)۔

قوم کا سردار بنا کرتا ہے۔

۶۹۔ لَيْسَ لِلْأَمْرِ بَصَاحٌ مَّنْ لَّدُنْ يَنْظُرُ فِي الْعَوَاقِبِ۔

(جو شخص انجام پر نظر نہ رکھے وہ معاملات پر حاوی نہیں ہو سکتا)

۷۰۔ أَلَا مِيرُومَن لَّا يَعْرِفُ الْأَمِيرُ

(امیر وہ ہے جو کسی دوسرے امیر کو نہ جانے)

۷۱۔ يَا حَبَّذَا الْأَمَارَةِ وَلَوْ عَلَى الْحِجَارَةِ۔

(حکومت بڑی اچھی چیز ہے خواہ پتروں پر ہی کیوں نہ ہو)

۷۲۔ تَأَمَّلْ عَيْبَ عَيْبٍ (عَيْبٌ دُخُونٌ صَحَابِی عَيْبٌ هِیَ)

۷۳۔ مَن آمَنَ الزَّمَانُ خَسَمًا

(جو شخص بھی زمانہ سے مومن ہوا زمانے نے اس سے خیانت کی) زمانہ

کے حواشات سے بے خوف نہ ہونا چاہیے۔

۷۴۔ آمَنَ مِنْ حَمَامٍ مَلَكًا

(مکہ کے کبوتر سے بھی زیادہ مومن کیونکہ نہ اس کو شک کیا جاتا ہے اور

نہ پریشان۔ آمَنُ اُس سے مشتق ہے

۷۵۔ آمَنَ مِنَ الْأَرْضِ

زمین سے زیادہ امین کیونکہ زمین میں جس جنس کی امانت رکھی جاتی ہے

اسی جنس کو اگادتی ہے آمَنُ امان سے ماخوذ ہے۔

۷۶۔ أَلَمْؤُمِنْ بِنْتِهِ فِي وَجْهِهِ وَخُذْنَا فِي قُلُوبِ

مومن کی کشادہ دلی اس کے چہرے پر ہوتی ہے اور اس کا غم

قلب میں مخفی ہوتا ہے۔

۷۷۔ أَلَا يَنَاسُ قَبْلَ الْأَنْبَاسِ

(مانوس کرنا روہنے سے پہلے ہونا چاہیے) انبیا کسی کو مانوس

بنانے کو کہتے ہیں اور انبیا نافرودہ ہونے کے وقت بس بس کہ

کر مطمئن کرنے کو کہتے ہیں جو ناقرا نباس کے بعد دودھ دے اس

کو بوس کہتے ہیں۔ یہ مقولہ طلب مدارات کے لئے کہا جاتا ہے۔

۷۸۔ لَيْسَ عَلَى الْإِنْسَانِ إِلَّا مَا مَلَكَ

(انسان پر وہی چیز ضروری ہے جو اس کے قبضے میں ہو)

۷۹۔ أَلَا نَسَانُ عَبْدُ الْإِنْسَانِ

(انسان احسان کا غلام ہے)

۸۰۔ أَلَا نَسَانُ ابْنُ يَوْمٍ

(انسان اپنے دن کا بیٹا ہے) یعنی وقت کا بندہ

۸۱۔ أَلَا نَسَانُ بِالتَّفَكِيرِ وَاللَّهُ بِالنَّاسِ بَصِيرٌ

(انسان غور و فکر میں مشغول ہے اور اللہ تعالیٰ تدبیر میں ہے)

"مدیر کند بندہ تقدیر زند خندہ"

۸۲۔ كُلُّ إِنْسَانٍ وَهْمُهُ

(ہر شخص اپنے غم کی تدبیر خود بہتر کرتا ہے) ہر شخص اپنا کام خود ہی

جاتا ہے یا ہر شخص اپنی مصیبت میں مبتلا ہے۔

۸۳۔ أُنْفُثُ فِي الْمَاءِ وَأَسْتُ فِي السَّمَاءِ

(ناک پانی میں ڈوبی ہوئی ہے چوڑا آسمان پر ہیں) کم رتبہ متکبر شخص یا

کم ہمت بڑا بولا شخص کے لئے کہا جاتا ہے

۸۴۔ أُنْفُثُ مِنْكَ وَإِنْ كَانَتْ آذَانُ

(تیری ناک تیری ہی ہے چاہے بھری ہوئی کیوں نہ ہو) الْأَنْفُ الْأَذُنُ

دہ ناک ہے جس سے بروقت ریزش بہتی ہو۔ اسی لفظ کا استعمال

یہ ہے ذَنْ الرَّجُلِ يَذْنُ يَذْنُ كَقَوْلِهِمْ أَذْنُ يَمْشِي اس

ایسے موقع پر استعمال کی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنی

قوم کے ضغائن سے بیزار ہو اور اس کو اپنی قوم کے کمزوروں

کی امداد کا احساس دلایا جائے۔

۸۵۔ مِنْكَ أُنْفُثُ وَإِنْ كَانَتْ آخِذَةٌ

(تیری ناک تیری ہی تو ہے چاہے وہ کٹی ہوئی ہو) اس شخص

کے بارے میں بولا جاتا ہے جس کی خیر یا شر سے مفر نہ ہو اگرچہ

وہ زیادہ قریب نہ ہو۔

۸۶۔ أَلَا نَا مُكَرَّائِسُ الْأَيَّامِ

(مخلوق زمانہ کا شکار ہے) آخر کار زمانہ سب کو ختم کر دے گا

۸۷۔ مَن تَأْتِي أَدْرَكَ مَا تَسْتَشِي

(جس نے استہنگی سے کام لیا اس نے اپنی مراد پائی) صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے

۸۸۔ كُلُّ إِنَّا بِاللَّيْلِ فَيَنْبِيزُ شَحْوُ

(ہر رات سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے) یز شح کے بجائے یز شح

بھی مردی ہے سنی ایک ہی ہیں۔

۸۹۔ عَلَى أَهْلِهَا تَجْنِي بَرَأَقِشُ

(اپنے اہل ہی پر بر راقش مصیبت لاتی ہے) بر راقش ایک عربی قبیہ کی

کتیا تھی۔ ایک مرتبہ اس قبیلے پر اپنا ناک حملہ ہوا۔ لوگ بچ کر بھاگ نکلے تھے

بر راقش بھونکتی ہوئی ان کے پیچھے چلی۔ حملہ آوروں نے اسی کی آواز

۱۔ ابرو دین کی سی

بغیر جادو کے مال غنیمت میں اپنے ساکھان کا حق طلب کیا کرتا تھا
۱۱۶۔ بَرَضٌ مِّنْ عَيْدٍ۔

(بڑے ذخیرہ میں سے تھوڑا سا) بَرَضٌ: تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں۔
بولاجاتا ہے مَاءُ بَرَضٍ تھوڑا سا پانی عَيْدٌ وہ پانی جو ہمیشہ جاری
رہے۔ ڈھیر میں سے مٹھی بھر۔

۱۱۷۔ اِنَّمَا هُوَ كَبْدٌ اَلْغُلْبِ

(وہ تو دھوکہ دینے والی بجلی کی طرح ہے) یعنی بجلی چمکتی ہے مگر بارش
نہیں ہوتی جو گر جتے ہیں وہ برستے نہیں!

۱۱۸۔ عَسَى الْيَارِقَةُ لَا تُخْلِفُ

(امید ہے کہ بجلی والا بادل وعدہ خلافی نہیں کرے گا) یعنی بارش
کی امید پوری ہوگی احسان کی امید میں بولاجاتا ہے!

۱۱۹۔ مَا حُلَّ بِكَ رِقَّةٌ تَجْرُدُ بِمَا نَهَا

رہ بجلی والا بادل اپنے پانی کی سخاوت نہیں کیا کرتا۔

۱۲۰۔ اَلَّذِي لَا يَبْصُرُ مِنَ الْعُزْبَالِ يَكُونُ اَعْمٰی

(جو شخص چھپنی میں سے بھی نہیں دیکھ سکتا وہ اندھا ہوتا ہے)

۱۲۱۔ اَبْصَرْتُ سَمَ قَدْ حَدَّثَ

(اپنے تیر کی علامت دیکھ لو) قَدْ حَدَّثَ وہ تیر ہے جس کے ذریعے لاٹری

تقسیم کی جاتی تھی۔ و سَمَ وہ علامت ہے جو تیر پر بنائی جاتی تھی۔ یہ

مقولہ ایسے مقام پر بولاجاتا ہے جہاں مخاطب کو اپنے نفع یا نقصان

پر متوجہ کرنا مقصود ہو! ”تم خود اپنے پھڑکے دانت دیکھ لو“

۱۲۲۔ اَبْصَرْتُ مِنْ عِقَابٍ

(عقاب سے بھی زیادہ تیز نظر)

۱۲۳۔ اَبْصَرْتُ مِنْ نَسِيرٍ

(گدے سے بھی زیادہ تیز نظر)

۱۲۴۔ اَبْصَرْتُ مِنَ الْوُطُوْاطِ فِي اللَّيْلِ

رات میں چمکاؤڑ سے بھی زیادہ تیز نظر)

۱۲۵۔ اَبْصَرْتُ مِنْ زُرْقَاءِ الْيَمَامَةِ

(یامہ کی زرقاء سے بھی زیادہ تیز نظر) زرقاء جدیدی قبیلہ کی عورت

تھی جو تین منزل کے فاصلے سے دیکھ لیتی تھی۔

۱۲۶۔ لَا يُبْصِنُ حَجَرٌ كَا

(اس کا پتھر دل پسند تک نہیں) بَقْنُ الْجَوْزِ اس وقت بولتے ہیں جب

پتھر سے عرق کی مانند کوئی نمی پھوٹ نکلے۔ اس بجلی کے لئے بولاجاتا

ہے جس سے خیر کی کوئی امید نہ ہو۔ ”پتھر میں جو تک نہیں نکلتی۔“ ان تلوں میں

تیل نہیں“

۱۲۷۔ اَبْطَأُ مِنْ عُرَابٍ لُّوْجٍ

(نوح کے کوسے سے بھی زیادہ دیر لگانے والا) نوح علیہ السلام نے

ایک کوسے کو بھیجا تھا کہ وہ زمین سے پانی کے ختم ہونے کی خبر لائے مگر

وہ واپس ہی نہ لوٹا

۱۲۸۔ اَبْطَشُ مِنْ دَوْسِرٍ

(دو دوسرے سے زیادہ تیز حملہ آور) دَوْسِرُ دوسرے مشتاق ہے۔ نعمان بن

مذر کے لشکر کا نام تھا۔

۱۲۹۔ بَطْنِي عَطِرِي وَسَائِرِي ذَرِي

(صرف میرے پیٹ پر مطر ملو اور میرے باقی حصہ بدن کو چھوڑ دو)

ایسے شخص کیلئے کہاجاتا ہے جو اہم چیز کو چھوڑ کر غیر اہم کو اختیار کرے

۱۳۰۔ اَلْبُطْنَةُ تَأْفِنُ الْفُطْنَةَ

زیادہ کھانا ذہانت کو ختم کر دیتا ہے اَفْنُ الْفُطْنِ اس وقت بولتے

ہیں جب اونٹ کا بچہ اونٹنی کے تھن کا سارا دودھ پی لے مثال کا

مفہوم یہ کہ مال و دولت نے عقل خراب کر دی ہے

۱۳۱۔ مَا اَبْعَدَ مَا فَاتَ وَمَا اَقْرَبَ مَا بَاقِي

(جو نکل گیا وہ دور گیا اور جو آنے والا ہے وہ بہت ہی قریب ہے)

۱۳۲۔ اَبْعَدُ لِي مِنَ التَّجْحُّرِ

رتاروں سے بھی زیادہ دور شمال میں نجم سے ثریا نام کے ستارے ملو ہیں

۱۳۳۔ اَبْعَدُ مِنْ بَيْضِ اَلْاَنْوَقِ

عقاب کے انڈوں سے بھی زیادہ دور حاصل نہ ہونے والی چیز۔

۱۳۴۔ اَبْعَدُ مِنْ مَنَاطِ الشَّرِيَا

(شریاء کے ٹکڑے سے زیادہ دور) مناط اُس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز

ٹکائی جائے یا اُس سے کسی چیز کو باندھا جائے۔

۱۳۵۔ اَبْعَدُ مِنْ مَنَاطِ اَلْعَيْوَقِ

(عیتوق کے ٹکڑے سے بھی زیادہ دور) عیتوق شریاء کے ساتھ طلوع ہو میرا ایک

شارہ ہے۔

۱۳۶۔ اَلْبُعْدُ حَقٌّ

(دوری ستم ہے) یعنی دور رہنے سے محبت کم ہوتی ہے ”لکھنؤ رہ از برادر دو“

۱۳۷۔ رُبَّ بَعِيدٍ اَنْفَعُ مِنْ قَرِيبٍ

(بہت سے دور والے پاس والوں سے زیادہ نافع ہوتے ہیں)۔

۱۴۶۔ لَا يَنْقُ شَيْءٌ عَلَى حَالِهِ

کوئی چیز اپنی ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی

۱۴۷۔ بَقِيَ تَعْلِيْقُكَ وَآبَنُ لِي قَدْ مَيِّدُكَ

(اپنے جوئے کو باقی رکھو اور پاؤں کام میں لاؤ) اپنے نفس پر تکلیف
بڑاشت کرو اور مال کو بچاؤ تاکہ معاملات خراب نہ ہوں۔

۱۴۸۔ اَلْبَقِيَّ مِّنْ وَجْهِ فِي حَجَرٍ

(پتھر پر لکھی ہوئی حکمت سے بھی زیادہ باقی رہنے والا) میں کے عرب
حکمت کی باتیں پتھروں پر لکھتے ہیں تاکہ پائدار رہیں لوگوں میں بولا
جاتا ہے۔ اَلْعُلُومُ فِي الصَّغَرِ كَالْفَتْنِ فِي الْحَجَرِ
”بچپن کا علم پتھر کی کبیر کی طرح ہے۔“

۱۴۹۔ اَلْبَقِيَّ مِّنَ الْعَصْرِ يَنُ

صبح و شام سے بھی زیادہ باقی رہنے والا) عصرین صبح و شام کہتے ہیں
مطلب یہ ہے کہ صبح و شام میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ایک ہی
طرز پر رہتے ہیں۔

۱۵۰۔ اَلْبَقِيَّ مِّنَ السَّمَوَاتِ

(نسریں سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا) نسرین سے مراد شروٹاڑ
اور نسر واقع دو ستارے ہیں۔

۱۵۱۔ اَلْبَقِيَّ مِّنَ الدَّهْرِ زَمَاتٌ سَ مِنْ يَدِيكَ بَاقِي رَهْنِ وَالَا

۱۵۲۔ اَلْبَقِيَّ مِّنْ حَجَرٍ (پتھر سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا)

۱۵۳۔ بَاكَرٌ تَسْعَا (صبح اٹھا کر دتا کہ نیک سخت بنو)

۱۵۴۔ اَبْحَرُ مَبْنِ عَنَرَاب

(کوڑے سے بھی سویرے اٹھنے والا) کوڑا سب پرندوں سے پہلے اٹھتا ہے

۱۵۵۔ مَا تَبَلُّ رَحْدَى سَيِّدِ يَدَا الْاُخْرَى

اس کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں کرتا) خیل آدمی کو کہا جاتا ہے

۱۵۶۔ بَلَّغَ وَهْنَهُ الْمُخْتَقُ

وہ اس سے انتہائی مشقت میں پھنس گیا ”سر پر آبی“ مختق طعن کہتے
ہیں ڈوبنے کے صلی تک پانی پہنچ جائے تو اس وقت وہ موت سے بھگتا رہتا ہے

۱۵۷۔ مَلَّغَ الْخِرَا مُ الْقَبِيْنِ

تنگ پستان تک پہنچ گیا) طینی، اُطبا و کا و احد ہے معنی تھن کا ہرا
اور خرام سامان کہنے کے تنگ کہتے ہیں۔ مراد کسی ممالک کی انتہا
کو پہنچ جانا۔ ”پھندا اگھیں آگیا“

۱۳۸۔ اِنَّ الْبُغَاثَ بِأَرْصِنَا يَسْتَنْسِرُ

دھاری سرزمین بغاٹ بھی کر گس) ہوجاتا ہے۔ بُغَاثُ ایک کمزور پرندہ
ہے۔ اَسْتَنْسِرُ کے معنی صارا کا لکھنے کے ہیں۔ اسے معروض شخص کے لئے
بولا جاتا ہے جس کے پاس اگر ذلیل شخص بھی معزز ہو جائے یا کمزور
قوی بن جائے۔

۱۳۹۔ اِنْ يَبْغِرْ عَلَيْكَ قَوْمٌ لَا يَبْغِرْ عَلَيْكَ الْقَوْمُ

(اگر تجھ پر تیری قوم زیادتی کرتی ہے تو چاند زیادتی نہ کرے گا)۔
زمانہ دجاہلیت میں لوگوں نے شرط لگائی۔ ایک نے کہا سورج نکلنے
کے بعد تک چاند نظر آئے گا۔ دوسرے نے کہا کہ سورج نکلنے سے پہلے
چاند غروب ہو جائے گا۔ معاملہ حکم تک گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنی
قوم کی زیادتی کی بھی شکایت کی حکم نے کہا کہ صبح کا انتظار کرو جو
صبح ہوگا سامنے آجائے گا۔

۱۴۰۔ مَنِ ابْتِغَا الْخَيْرَ لِقَاعِ الشَّرِّ

(شر سے بچنا بھی خیر ہی تلاش کرتا ہے)۔

۱۴۱۔ عَلَى الْبَاغِي تَنُ وَرُ الدَّوَا سِرُّ

(ظالم ہی کے سر پر مہینیں گھومتی ہیں) باغی ظالم کو کہتے ہیں۔

۱۴۲۔ كَمَبَغِي الصَّيْدِ فِي عَمَلِ نَيْسَةِ الْأَسَدِ

(شیر کی کچھاریں شکار تلاش کرنے والے کی طرح) اس شخص کے بارے
میں بولا جاتا ہے جو غیر ملکی اپنی ضرورت طلب کرے یا جہاں وہ
مغلوب ہو جائے۔ یا اس چیز کے لئے جو محال چیز کا طالب ہو چل کے
گھر نیلے میں اس تلاش کرنا۔ ”ہاتھی سے گنا مانگنا“

۱۴۳۔ بِقَبْتَةٍ فِي زَفَرَةٍ

(مہنی میں شور و شر) بَقْبَعَةُ۔ شور اور بہت بولنے کو کہتے ہیں اور زَفَرَةُ
مہنی کو کہتے ہیں اور لایعنی باتیں کرنے والے کے لئے بولا جاتا ہے شیعنی
گھارنا یا بے پرکی اڑانا۔

۱۴۴۔ تَبَلُّ شَهْرٍ وَشَوْلٌ دَهْرٍ

(ساگ مہینہ بھرا اور کاٹا ہمیشہ کا) اس کے لئے بولا جاتا ہے جس کی
خیر قلیل اور نہ بہت ہو۔

۱۴۵۔ مَا اسْتَبْتَنَّاكَ مِنْ عَرْمَدٍ يَلَا سَدَ

(جس نے تجھے شیر کے سامنے ڈال دیا اس نے تجھے زندہ نہیں چھوڑا)
اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بد انجام برائی پر اُجھارتا ہو۔

۱۵۸۔ بَلَعَهُ السَّيْلُ الزُّبِّي -

سیلاب میلے تک پہنچ گیا، زبیبیہ اونچی زمین یعنی "پانی سرے گزر گیا"۔

۱۵۹۔ بَلَغَ السَّرْحَيْنِ الْعَظَمَ -

رھپری بڑی تک پہنچ گئی، کسی معاملے کے انتہا تک پہنچنے کے وقت تک پہنچا۔

۱۶۰۔ بَلَغَتِ السَّمَاءُ السَّثْنِ -

رخن چو پائیوں کے ٹخنوں تک پہنچ گیا۔ غنن: ٹنٹہ، کی جمع ہے

وہ بال جو چوپایہ کے پیچھے ٹخنوں میں ہوتے ہیں۔ یہ مثال بھی شرکے

انتہائی حد تک پہنچنے کے وقت بولی جاتی ہے۔

۱۶۱۔ لَوْ بَلَغَ الرِّزْقُ كَالْكَوَالَةِ قَفَاةً -

راگر رزق اس کے منہ تک پہنچ جائے تب بھی وہ پشت پھیر لے گا

محرور کے لئے بولا جاتا ہے۔

۱۶۲۔ مَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَ عُصْنُ الشَّجَلِ -

(امید ہے کہ چوٹی کے کاٹنے کے برابر بھی نہ پہنچے گا) اس کے لئے

کہا جاتا ہے جس کی دھمکی کی کوئی پروا نہ ہو۔

۱۶۳۔ اَبْلَغُ مِنْ قُتَيْبٍ -

(قس سے زیادہ بلیغ) قس ابن ساعدہ عرب کے حکماء میں سے

تھا اس کے ساتھ فصاحت اور خطابت میں تشبیہ دی جاتی ہے

اس نے سب پہلے "ابا بعد" استعمال کیا اور اسی سے سب سے پہلے کہا

کہ "الْبَيْتَةُ عَلَى مَنْ اِدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ"

ردی کے ذمہ گوار اور منکر کے ذمہ قسم ہے۔

۱۶۴۔ اَبْلَغُ مِنَ الْخِيَارِ -

(خجاری سے بھی زیادہ بے وقوف) خجاری ایک کم سمجھ اور کم عقل

پرندہ ہے کیونکہ اس کی مادہ جب اپنے انڈے چھوڑ کر جاتی ہے

تو ان کو بھول جاتی ہے اور دوسروں کے انڈے سینے لگ جاتی ہے

۱۶۵۔ اِنَّ الْبِلَادَ مَوَدَّةً كُلَّهَا بِالْمَسْطُوحِ - (عامی شہر بلا سے پجاتی ہے)

۱۶۶۔ (مصیبتیں حوایا پر بھی پڑتی ہیں) حوایا، تحویہ کی جمع ہے۔ اس مذہ

کو کہتے ہیں جس میں گھاس بھر کر اونٹ کے کولان پر رکھا جاتا ہے

۱۶۷۔ مثال کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہونا ضروری ہے

۱۶۸۔ بَيِّنَاتٌ لِّئِنْ لَيْسَ فِيهَا سَاعِدٌ -

(ایسے باتھ کی انگلیاں ہیں جن کا بازو نہیں، ایسے شخص کے لئے کہا جاتا

ہے جس میں بہت تر ہو مگر عمل نہ کر سکے۔

۱۶۸۔ اَنَا بَيْتٌ جَدًّا -

(میں جد کا روکا ہوں) مشہور و متعارف کے لئے بولا جاتا ہے، یہ

شاعر کے قول کا ایک ٹکڑا ہے شعر ہے۔

۱۶۹۔ اَنَا بَيْتٌ جَدًّا وَطَلَّاعُ الشَّيَا: مَتْنِي اَصْحَ الْعَامَّةِ تَعْرِفُونِي -

(میں جد کا بیٹا ہوں گھائیوں پر چڑھ جاؤ لا جب میں عامر آتا رہا

گا تو تم مجھے پہچانو گے) ابن جلا کی تقدیر یہ ہے اَنَا بَيْتٌ لِّئِنْ

يُقَالُ لَهَا جَدًّا الْاُمُومَا وَكُنْسُهَا

۱۷۰۔ رَبِّ ابْنِ عِمِّ لَيْسَ بِابْنِ عَمِّ

(بہت سے چچا زاد بھائی ایسے ہیں جو دراصل چچا زاد بھائی نہیں) کیونکہ جو

چچا زاد بھائی نفع نہ پہنچائے اور امداد نہ کرے وہ گریا چچا زاد بھائی ہی نہیں

۱۷۱۔ بِنْتُ صَفَا تَقُولُ عَنْ سَمَاعٍ -

(بنت صفا ہر آواز کا جواب دیتی ہے) بنت صفا اور بنت جبل سے

مراد صدائے بازگشت ہے۔ یہ مثال ایسے شخص کے لئے کہی جاتی ہے جو کسی

بھی کام کی طرف مدعو کیا جائے اور فوراً ہی قبول کر لے۔

۱۷۲۔ سَيَبْنِي قَصْرًا وَيَهْدِي مَضْرًا -

(معل تعمیر کر رہا ہے اور شہر برباد کر رہا ہے) اس کو کہا جاتا ہے جس کی

خیر کم اور شر زیادہ ہو۔

۱۷۳۔ اَبْجَى مِنَ الْقَسْرِينِ -

(چاند سورج سے بھی زیادہ پر روتی) "چندے آفتاب چندے ماہتاب"

۱۷۴۔ بَالُ حِمَارٍ قَا سَتَبَالُ أَحْمِرَةً -

(ایک گدھے نے پیشاب کیا بہت سے گدھوں سے پیشاب کر دیا)

(حمرۃ حمار کی جمع ہے اس قوم کے لئے بولا جاتا ہے جو ایک فرد کے

برے عمل کی اندھی تقلید کریں۔

۱۷۵۔ بَالَتْ بَيْتُهُمْ الشَّالِبُ -

(ان کے درمیان لومڑی نے پیشاب کر دیا) اس قوم کے لئے کہا جاتا ہے

جس میں چھوٹ اور فساد پڑ جائے۔

۱۷۶۔ لَوْ كَانَ فِي الْبُومِ مَذْخَرٌ مَّا تَرَكْنَاهَا الصِّيَادُ -

(اگر لوہے کی کوئی بھلائی ہوتی تو شکاری کبھی نہ چھوڑتا۔)

۱۷۷۔ سَبِيَّتِي يَبْخُلُ لَا اَنَا -

(میرا کانٹیل ہے میں نہیں) دینے کے لئے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔

۱۷۸۔ اَبَادَا لِّلَّهِ خُفْرًا هُمُ -

(میں غضبناک ہوں اور تمہیں سہارا نہیں چھرم کیسے متفق ہوں؟) تَبَيَّنَ
عَفْوَ سَعْدٍ بِمَوَاقِفِهِ كَقَبْلِهِ وَالْأَمْرِ مُتَقَاتِلٌ لِّلْغَوَاةِ لَوَّلُ
کے لئے بولا جاتا ہے۔

۱۹۱۔ أَتَبَيَّنَ الْغَنَاسَ لِبَاجِيهَا وَالنَّاقَةَ ذَمَامَهَا۔
(گھوڑے کے ساتھ گام اور ناقہ کے ساتھ گام بھی دو) تاکہ بخشش مکمل ہو۔

۱۹۲۔ أَتَبَيَّنَ الدُّنْيَا لِرَشَاكِهِ
(دُنیا کے ساتھ رشتہ بھی دو) رِشَاكُ - پانی کھینچنے کی رستی۔

۱۹۳۔ أَتَبَيَّنَ مَرِيضَ الْبَطْنِ رِسَايَ سَعْدٍ زِيَادَةً يَحْيَا كَرْنَهُ وَالْأَمْرِ

۱۹۴۔ لَوْ تَجَدَّتْ بِأَلَا كُفَاتٍ مَا مَاتَ أَحَدًا
(اگر تو کفن کی تجارت کرتا تو کوئی نہ مرنے لے۔)

۱۹۵۔ لَوْ تَجَدَّتْ كَالْعَمَلِ الصَّالِحِ - (نیک عمل بہترین تجارت ہے)

۱۹۶۔ شَرَكْتُ نَبِيَّيْنِ طَلْعَهُ

(ہر نے اپنا سایہ چھوڑ دیا) اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو عیش و
آرام کی جگہ سے سختی و تنگی میں چلا جائے۔

۱۹۷۔ شَرَكْتُ عَلَى الْفَقْرِ الرَّاحَةَ

(میں نے اس کو سہیل کی طرح صاف حالت میں چھوڑا) یعنی اچھی حالت
میں نہیں چھوڑا جیسے سہیل پر کوئی مال نہیں چھوڑا ہے۔

۱۹۸۔ شَرَكْتُ عَلَى فَيْسَلٍ مِثْلَ مِثْلِي الْأَسَدِ -

(میں نے اس کو گویا کہ شیر کے ہونٹ کے پاس چھوڑ دیا ہے)۔

۱۹۹۔ شَرَكْتُهُمْ فِي حَيْصٍ بَيْضٍ أَوْ حَيْصٍ بَيْضٍ

(میں نے ان کو انتہائی مشکل میں پھنسا ہوا چھوڑا) حیس فراکو اور کوہ
ڈر کر بھل گئے اور چھپنے کو کہتے ہیں حیس کا ہم وزن کرنے کے لئے بوس
کے واؤ کو یا سے تبدیل کر کے بیض بنا لیا ہے! ایسے شخص کے لئے

کہا جاتا ہے جو کسی ناگزیر معاملہ میں پھنس جائے

۲۰۰۔ مَا تَرَكَ الْأَوَّلُ لِلْآخِرِ شَيْئًا

(پہلے نے دوسرے کے لئے کچھ نہ چھوڑا)

۲۰۱۔ مَنْ تَرَكَ الشُّرَكَاءَ عَاشَى حُرًّا

(جس نے خواہشات کو چھوڑا اس نے شرافت کے ساتھ بری)

۲۰۲۔ لَوْ شَرَكْتُ الْفَقْرَ لَيْلًا لَنَامَ -

(اگر فقرا کو رات میں چھوڑتا تو آرام سے سو جاتا) اس شخص کے لئے بولا جاتا

ہے جو بلا ارادہ کسی مصیبت پر مجبور کیا جائے۔ یا جو ظلم کرنے پر مجبور

(اللہ تعالیٰ ان کی سرسبزگی کو برباد کرے) بد دعا ہے

۱۶۹۔ كَانَتْ بَيْضَةً أَلْبَنِيَّةَ -

(وہ چیز مرغ کا انڈا تھی) اس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو صرف ایک
مرتبہ پائی جا کر نایاب ہو جائے کیونکہ بعض عرب کے گمان میں مرغ بھی
ایک مرتبہ انڈا دیتا ہے۔

۱۸۰۔ بَيْضَتُهُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّنْ دُجَاجَةِ الْغَدِ

(آج کا انڈا کل کی مرغی سے بہتر ہے) نقد نہ تیرا ادھار

۱۸۱۔ بَيْضَتُهُ الْبَنَدُ - (شہر کا بڑا آدمی یا شہر کا گنہگار آدمی)

۱۸۲۔ دُونَهُ بَيْضُ الْأَنْبِيَاءِ -

(اس سے ورے عقاب کا انڈا ہے) ایسی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو
ناور و کیا بھروسے عقاب کا انڈا۔

۱۸۳۔ مَا كُلُّ بَيْضَاءٍ شَعْمُهُ وَلَا كُلُّ سَوْدَاءٍ تَمْرَةٌ

(ہر سفید چیز چربی اور ہر سیاہ چیز کھجور نہیں ہوتی) ہر ٹھیکہ اگرچہ سونا
نہیں ہوتی۔

۱۸۴۔ مَنْ بَاعَ يَجُودَ مِنْهُ أَنْفَقَ -

(جو شخص اپنی آبرو بیچے گا آبرو سے بیٹھے گا) جو شخص گالیاں سننے
کا سامان کرے گا تو گالیاں اس کو تیار ملیں گی۔ نفق کے معنی ہیں
بکتا ہوا پایا۔ سہولت سے سودا ہو گیا۔

۱۸۵۔ بَعْتُ جَدْرِيَّ وَلَمْ أَجِدْ دَارِيَّ -

(میں نے پڑوسی بیچا ہے مکان نہیں بیچا) یعنی میں نے بد خلق پڑوسی
سے بچنے کے لئے مکان فروخت کیا ہے۔

۱۸۶۔ لَا تَبِعْ نَفْسًا أَيْدِيَيْنِ -

(نقد نہ دھار کے بدلے میں نہ بیچو)

۱۸۷۔ قَدْ بَيَّنَّ الصُّبْحُ لِي نِيَّيْ عَيْنَيْنِ -

(آنکھوں کے لئے صبح ظاہر ہو گئی ہے) بالکل ظاہر معاملہ کے لئے بولا
جاتا ہے! بَیِّنٌ یعنی بَیِّنٌ ہے۔

۱۸۸۔ أَبَيْنَ مِنْ فَلْيٍ الصُّبْحُ أَوْ فَرَّقَ الصُّبْحُ

(صبح کی روشنی سے بھی زیادہ ظاہر) فلک اور فرق دونوں کے معنی فجر کے ہیں

۱۸۹۔ إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَكَيْفَ (بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں)

ت

۱۹۰۔ أَنَا تَبَيَّنْتُ وَأَنْتَ مَرِيضٌ فَكَيْفَ تَتَفَقَّحُ -

جائے اور ظلم کرنے لگے۔

۲۰۳۔ لَا يَذُرُكَ السَّاقِ إِلَّا مُمْرِكًا سَاقًا

روہ ایک تنہ کو بغیر دوسرے تن کے پکڑے نہیں چھوڑتا، یہ گرگٹ کے لئے کہا جاتا ہے۔ مراد قحط آدمی۔

۲۰۴۔ لَا يَذُرُكَ الظُّبَى طَلَّةً

اہرن اپنا سایہ نہیں چھوڑتا، مانوس چیز کو لازم کر نیکی لئے مثال دیتی ہے

۲۰۵۔ اُشْرُكَ الشَّرَّ يُذِرُ كُحْكًا

تو شر کو چھوڑ دے شر تجھے چھوڑ دے گا۔

۲۰۶۔ تَرُكُ الْجَوَابِ عَلَى الْجَاهِلِ جَوَابٌ

(جواب جاہل باں باشد خاموشی)

۲۰۷۔ تَرُكُ مَا لَا يَصْلُحُ اَصْلَحُ

(ناقابل اصلاح کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے)

۲۰۸۔ إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ

(جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے)۔

۲۰۹۔ تَمَامُ الرِّيحِ الصَّيْفُ

(فصل ریح کا ختم ہونا ہی گرمی ہے۔ اسی طرح مہرب کا قول ہے الْأَعْمَالُ

يَحْكُمُ آتِيهِمْ بِأَعْمَالِهَا) اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔

۲۱۰۔ أَتَمَّ مِنْ قَمَرِ الشَّمْسِ

(پورے چاند سے بھی زیادہ کامل، تم کے معنی یہاں تمام کے ہیں یعنی

بِزْرِ الْكَمَامِ)

۲۱۱۔ أَلَمَّةٌ وَالْجَمَّةُ كُحْرٌ وَجِجَارِي (یعنی اچھا و بُرا یا نفع و ضرر)

۲۱۲۔ اَلْتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

(گناہوں سے توبہ کر لینے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی

گناہ ہی نہ کیا ہو)

۲۱۳۔ تَاَجَ الْمَوْدَعَةِ التَّوَّاصِعُ (تواضع شرافت کا تاج ہے)

۲۱۴۔ اَتَيْتُهُ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى

(قوم موسیٰ میرے بھی زیادہ چٹکارا ہو) تیرے، یعنی حیرانی۔ قوم موسیٰ

چالیس سال تک حیرانی میں بھٹکتی رہی۔

ن

۲۱۵۔ تَأَلَّاهُ مَدَّةً بِمَاءٍ

(مڑی کچیل کے ساتھ پانی بھی ملیگا۔ مثالاً اس بدبودار کچیل کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی اور مڑی ہوئی چیز بھی شامل ہو کر بکریا اور نیم چڑھا)

۲۱۶۔ أَثْبَتُ فِي الدَّارِ مِنَ الْجِدَارِ

(دیوار سے بھی زیادہ گھر میں جھنبے والا۔

۲۱۷۔ أَثْبَتُ مِنَ الْوَشْمِ (گو دھن کے نشانوں سے زیادہ پائیدار)

۲۱۸۔ مَا لَكَ شَاغِيَةٌ وَرَاغِيَةٌ

رہ اس کے پاس بھیڑ ہے نہ ناقتہ، ناغیزہ بھیڑ کر اور راعیہ ناقتہ کو کہتے

ہیں۔ تلاش کے لئے کہا جاتا ہے۔

۲۱۹۔ أَثْقَلُ مِنْ رَضْوَى

(رضوی سے بھی زیادہ بھاری) رضوی میریہ کا ایک پہاڑ ہے

۲۲۰۔ أَثْقَلُ مِنْ تَوْدٍ (بڑے پہاڑ سے زیادہ وزنی)

۲۲۱۔ أَثْقَلُ مِنْ أَحْصٍ

(اُحد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی) اُحد عرب کا پہاڑ ہے۔

۲۲۲۔ تَكُنْتُ أُمِّكَ أَيْ جَدِّ تَرْقَعُ

(تیری ماں تجھے روئے تو کوئے کپڑے کو بیوند لگا رہے) جود پرانے

کپڑے کو کہتے ہیں۔ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو غلط اور

غیر نافع کام کرے۔

۲۲۳۔ اَلتَّحَلَّى تَحَبُّ التَّحَلَّى

(گم شدہ بچے کی ماں گم شدہ بچے کی ماں کو ہی پسند کرتی ہے)۔

”کنڈہم جنس باہم جنس پر دانہ“

۲۲۴۔ اَلْيُمُّ السُّوْكَ الْعَيْنُ (کانٹا انگر کا بھل نہیں دیتا)

۲۲۵۔ شَرَّةٌ وَالْجَرَّةُ لَارْمِجٌ وَلَا خُسْرٌ

(بردلی کا نتیجہ نہ نفع ہے نہ نقصان) خسرو نقصان کو کہتے ہیں۔

۲۲۶۔ اَلْعَبَاتُ لَا يَرْبَحُ وَلَا يَخْسِرُ

(نامرد نہ نفع پاتا ہے نہ نقصان)

۲۲۷۔ لَيْلِي تَوْبٍ لَا يَسْ (ہر کپڑے کا کوئی پسینے والا ہے)

۲۲۸۔ شَادَّ حَالَهُمْ عَلَى آتَا بِلَهُمْ

(ان کا حال والا ان کے تیر والے پر جوش آگیا) حایل حال والے کو اور

نابل تیر والے کو کہتے ہیں۔

۲۲۹۔ اَلتَّوْرُ يُخْنِي اَلْفَنَ بِدَوَقِهِ

(بیل بھی اپنی ناک کی حفاظت اپنے سیگوں سے کرتا ہے)۔ رَوُوق

ج

۲۳۰۔ اَجَبْنِ مِنْ نَعَاءَةٍ - (شتر مرغ سے بھی زیادہ بزدل)

۲۳۱۔ اَجْبَرُ مِنْ صَاحِبِ

(صاف سے زیادہ بزدل) صاف ایک پرندہ ہے جو اپنی ٹانگوں سے سخت کی شاخ کو کپڑ کر لٹا لٹک جاتا ہے اور تمام رات سیٹی کی آواز نکالتا رہتا ہے تاکہ وہ سونہ جائے اور شکار نہ کر لیا جائے۔

۲۳۲۔ اِنَّ الْعَبَانَ حَقْفَةً مِنْ قَوْقَبٍ

(بزدل کی موت اوپر سے نازل ہوتی ہے) نامرد کے لئے بولا جاتا ہے۔

۲۳۳۔ بِحَبِيبَتِي اَنْعَبِرُ يُفْنَدَايَ حَافِرَا لَعْنَتَيْنِ -

دگدھے کی پیشانی گھوڑے کے گھر کے فدیہ میں دیجاتی ہے (جو گدھے کو کہتے ہیں۔)

۲۳۴۔ الْحَبَشُ لَمَّا قَاتَلَ الْاَعْيَرُ

(جب گدھے نہ ملیں تو گدھے کا بچہ ہی سہی) یعنی جب گدھوں پر قدرت حاصل نہ ہو تو بچہ ہی پر اکتفا کرو ججش کو ایک محذوف فعل کی وجہ سے منصوب کیا گیا ہے اس کی اصل اطلب الججش ہے۔

۲۳۵۔ قَدْ جَدَّ اَشْيَابًا قَلْبُهُ فَجَدَّوْا

(تمہارے ساتھیوں نے کوشش کی ہے لہذا تم بھی کوشش کرو)۔ ساتھیوں کے کام کی شرکت کی ترغیب کے لئے کہا جاتا ہے۔ اَسْتَبَارُ اصحاب کو کہتے ہیں۔

۲۳۶۔ مَنْ جَدَّ وَجَدَّ - (جو کوشش کرتا ہے وہ پالیتا ہے)

۲۳۷۔ جَدَّ اِلٰى مَرِيٍّ يَجِدُكَ لَكَ

(جس شخص کے لئے تو کوشش کرے گا وہ تیرے لئے کوشش کرے گا)

۲۳۸۔ جَدَّ لِيْ يَزْعُمِيْ نَعْمَكَ

(تیری نعمت تیرے چوپایوں کو چراتی ہے) مادر مال اڑنے والے کے لئے بولا جاتا ہے۔

۲۳۹۔ جَدَّ لَكَ لَا كَدَّكَ -

(تیری کوشش مفید ہے لیکن طلب میں سختی مفید نہیں) جَدَّ کوشش و استہام کرنا کد سختی اور اصرار کبسا مخ طلب کرنا جَدَّ لَكَ لَا كَدَّ لَكَ۔ نصب کے ساتھ بھی منقول ہے۔ اس صورت میں ایک

فعل رُبَّح محذوف ہوگا۔
۲۴۰۔ مَنِ جَدَّ لَكَ سَتُبْلِيْهَا عِدَّةٌ

(ہر چیز عنقریب پرانی ہونے والی ہے) عِدَّةٌ سے مراد عِدَّةٌ اَلْيَا مَرُوَالْيَا لِي - ہے

۲۴۱۔ نِعْمَ الْجَدُّ وَدُوْلِكِنْ يَبْسُ مَا خَلَقُوْا

(آباد و اجداد تو بہت اچھے تھے مگر ان کے خلف بہت بُرے ہیں)

۲۴۲۔ لَا حَبِيْبًا لِّسَنٍ لَا خَلْقَ لَهَا -

(جس کے پاس پرانا نہ ہو اس کے پاس نیا بھی نہیں رہتا) اس لئے پرانے کی حفاظت کرو کہ نیا بھی محفوظ رہے!

۲۴۳۔ حَبْدٌ يَدَّ فِيْ لَعْنَتِيْ

(ایک بڑی سنجیدگی ہے کھیں میں) جَدَّ کی تصغیر ہے وہ بات جو سنجیدگی سے کہی جائے۔ مراد یہ ہے کہ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے جو کھیں ہی کھیں میں کہی گئی ہے۔

۲۴۴۔ مَنْ اَجَدَّ بَ اِنْ تَجَعَّ -

(جو قحط زدہ ہوتا ہے وہ گھاس کی تلاش میں نکلتا ہے) عاودہ ہے اِنْ تَجَعَّ الْقَوْمُ اَلْكَادُّ قَوْمُ گھاس کی جستجو میں مختلف جگہ لگی) یعنی ضرورت پوری کرنے کے لئے اچھی طرح کوشش کرو۔

۲۴۵۔ وَ نَعْبُضُ الْحَدْبَ اَمْرًا لِّلْمَزِيْلِ -

(بعض قحط سالی لانگڑ کے لئے بہت خوشگوار اثبات ہوتی ہے) اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو مالدار کی کربدداشت نہ کر سکے بلکہ اس کی وجہ سے سرکشی اور ظلم شروع کر دے اَلْعَامُ اَلْمُرِيْ پچنے والے اور خوشگوار کھانے کو کہتے ہیں۔

۲۴۶۔ حِدَّ حَوْبِيْنٍ مِنْ سَوْبِيْنٍ عَيْرَةٍ -

(جوین نے اپنے ملاوہ کسی اور کا ستر گھولا ہے) جَدَّ السَّوْبِيْنِ۔ ستر کو گھی وغیرہ میں گھولنا۔ ایسے آدمی کے لئے کہا جاتا ہے جو غیر کے مال میں قیاضی دکھائے ”حلوانی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ“ بہت سوال کرنے والے حویلی کے لئے یہ مثل بولی جاتی ہے۔

۲۴۷۔ اَجْدَى مِنَ الْغَيْثِ فِيْ اَوَانِهِ

(بروقت بارش سے زیادہ نافع) اَجْدَى اَجْدَاءُ بمعنی نافع ہونا ہے مشق ہے اَفْعَلُ کے صیغہ کا اشتقاق باب افعال سے شاذ ہے!

۲۴۸۔ حَبْدُ بَ اَلْمَا مَرِيْنِ يَنْصَعَابَ -

راگ کھینچ کر کھنا بے سدھے گھوڑوں کو سدھا دیتا ہے ایسے شخص کے لئے کہتے ہیں جو ابتدا میں حکم نہ مانے مگر آخر میں مطیع ہو جائے صرخاب۔ سرکش گھوڑے کو کہتے ہیں۔

۲۴۹۔ حَبْلٌ لِّحَاكٍ

دکھلی دور کرنے والا کڑی کا لٹھا، جڈل۔ درخت کی جڑ کو کہتے ہیں یہ اونٹوں کے بازو میں نصب کر دی جاتی ہے اور غارشی اونٹ اس سے کھلا کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ حکاک غارش کی طرح ایک بیماری سے اس شخص کے لئے کہتے ہیں جس کی رائے اور عقل سے لوگ اپنے کام درست کرتے ہیں۔

۲۵۰۔ اَنَا جَدَّ بِلَهَا الْمَحْدَثُ وَعَدَّ نِقْمًا الْمَرْجَبُ۔

میں اس کے لئے غارش کے وقت کھلانے والا تڑپوں اور چوہرہ سے مضبوط کیا ہوا کھجور کا درخت ہوں، جڈیل جڈل کی تصغیر ہے، یعنی درخت کی جڑ۔ ٹھلک وہ پیر جس سے غارش اونٹ کھلا لیں۔ عَذَقٌ عَذَقٌ کی تصغیر ہے یعنی کھجور کا درخت مَرَجَبٌ وہ چیر جس کے چاروں طرف پتھر کا چوہرہ بنا کر مضبوط کیا گیا ہو کھجور کے اچھے درخت کی حفاظت کے لئے اس کے چاروں طرف پتھر کا چوہرہ بنا کر سہارا دیتے ہیں۔ تصغیر تنظیم کے لئے ہے جس شخص کی عقل و رائے سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عظمت و اہمیت ظاہر کرنے کے لئے یہ مقولہ کہا جاتا ہے۔

۲۵۱۔ كُلُّ يَجْرٍ لِّتَارٍ اِلٰی قَرْصٍ

ہر شخص اپنی ٹکلیا کی طرف آگ کھینچتا ہے (یعنی شخص اپنے نفس کے لئے خیر چاہتا ہے۔)

۲۵۲۔ اَجْدَا مِنْ ذِي لُبْدَةٍ (شیر سے زیادہ جری) ذِي لُبْدَةٍ شیر

۲۵۳۔ اَجْدَا مِنْ اِسْمَاةٍ

شیر سے زیادہ بہادر، اسماء شیر کا نام ہے اسم معروف ہے اس پر الف لام تعریف کا داخل نہیں ہوتا ہے۔

۲۵۴۔ اَجْدَا مِنْ لَيْثٍ يَحْتَنَانِ

(خفان کے شیر سے زیادہ بہادر خفان شیروں کی ایک مشہور بھاری تھی

۲۵۵۔ اَجْدَا مِنْ ذُبَابٍ

دکھلی سے زیادہ جری، جو بادشاہ کی ناک اور شیر کی پلک پر بھی جا بیٹھتی ہے۔

۲۵۶۔ اَجْرَدُ مِنْ صَنْعَةٍ

دکھلی ٹانگ سے بھی زیادہ ننگا، سکتہ۔ گنجے کے سر کا بغیر بالوں والا حصہ

۲۵۷۔ اَجْرَدُ مِنْ صَخْرَةٍ

رچان سے زیادہ صاف جس پر کوئی روئیدگی نہیں ہوتی۔ اس پر کوئی چیز نہیں جمی۔

۲۵۸۔ كَالْجَرَادِ لَا يُبْقَى وَلَا يَذَرُ۔

(مڈی کی طرح جو نہ کچھ باقی رکھتی ہے نہ کچھ چھوڑتی ہے)۔

۲۵۹۔ جَرَدٌ وَاَوْشَالٌ۔

(تھوڑا پانی اور سیرابی) جَرَدٌ سیراب ہو کر پانی پنا یعنی مال تھوڑا اور

فصول خرچی۔ کفایت سے خرچ کرنے کی ترغیب کے لئے بولا جاتا ہے

۲۶۰۔ اَلْجَرْعُ اَرْدُوِيْ ذَا الْكُوْشِيْفِ اَنْقَعُ۔

روکنا سیراب تو کر دیتا ہے لیکن چوس کر پینا زیادہ تسکین بخش ہوتا ہے۔ جَرْدٌ بے تماشپی جانا۔ رَشِيْفٌ چوس کر پینا۔ اَنْقَعُ پیاس

بجھنا۔ اَرْدُوِيْ جلدی سیراب کرنے والا اور اَنْقَعُ پائیدار تشفی

بخشنے والا۔ مطلب یہ کہ گھونٹ گھونٹ کر کے پی جائے تو اچھی

طرح پیاس بجھتی ہے۔ اگر پیر اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ اسی موقع

پر کہا جاتا ہے ”ٹھنڈا کر کے کھانا اچھا ہوتا ہے“

۲۶۱۔ لَا جَرَمَ بَعْدَ اَلْمَدَامَةِ

(ندامت کے بعد کوئی جرم باقی نہیں رہتا)۔

۲۶۲۔ اِذَا جَرَدِيَ الْمَسْكِيْ حَسَرْتُ عَنْهُ الْخَيْرَ۔

(جب کامل گھوڑا چلتا ہے تو اگر سے اس سے عاجز رہ جاتے ہیں)۔

مَدَكِيْ وہ گھوڑا جس کی قوت اور نشوونما مکمل ہو چکی ہو جَسْرٌ عاجز

رہ جانا۔ یہ مثل ایسے شخص کے لئے کہی جاتی ہے جو اپنی خوبیوں

کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے سبقت لے جائے۔ ”گھوڑے

اور گدھے کا کیا مقابلہ“

۲۶۳۔ يَجْرِيْ بُلَيْقٍ وَبَيْتٍ قَرٍ

(بلین دور تارے، پھر بھی اس کی مذمت ہوتی ہے) بلین ایک

گھوڑے کا نام ہے جو دو درجے جتا کرتا تھا، پھر بھی اس کی برائی

ہوتی تھی، یہ مثل اس موقع پر بولی جاتی ہے جب محسن کی مذمت کی

جائے۔

۲۶۴۔ تَجْدِي الْوِيَا حَبَا لَا تَسْتَقِي السُّقْنُ۔

(الہی ہوا پر بھی ملتی ہیں جو خواہش کے خلاف ہی چلتی ہیں) سفن سے مراد اہل سفن ہے۔

۲۶۵۔ اَجْرًا مُّوَدَّ عَلٰی اَذْنَانِہَا۔ (معاذ کو آسان طریقے پر جاری رکھو)
۲۶۶۔ جَدْرِي الْمَدَارِیَتْ غِلَاوٌ

(اچھے گھوڑوں کی چال بھی میلوں تک ہوتی ہے) دوڑ کی آخری حد اور بھی زیادہ دور ہوگی۔ پورا گھوڑا غلوؤ؟ غلاؤ؟ کی جمع ہے۔ یہ معجزوں پر کسی کی فوقیت ظاہر کر نیکے لئے کہا جاتا ہے۔

۲۶۷۔ اَلْجَدْرُ عِنْدَ الْمُصِیْبَةِ مُسِیْبَةٌ اٰخَرٰی (مصیبت کے وقت گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے)۔

۲۶۸۔ جَزَاہُ جَزَاۃً سِتْمَاۃً۔

(اس کو ستما جیسی جزا دی) ستما شاہ نعمان ابن امرئ القیس کے مشہور اور پر امراد محل خرافی کا رومی معارف جس کو محل کی تعمیر کے بعد نعمان نے اسی محل سے گرا کر ہلاک کر دیا تا کہ کسی اور کے لئے ایسا محل نہ بنا سکے ایسے محسن کے لئے کہا جاتا ہے جس کو بھلائی کا بدلہ

برائی سے دیا جائے

۲۶۹۔ جَزَیْتُہُ کَیْلُ الصَّاعِ بِالصَّاعِ۔

(میں نے اس کو پیمانہ کا بدلہ پیمانہ سے دیا) یعنی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور بُرائی کا بدلہ بُرائی سے۔

۲۷۰۔ هٰذَا اِحْدَاہُ مُجِیْبٌ اُھَرِّکَاہِی

(یہ تجھ کو پناہ دینے والے کی جزا ہے) اُمّ عامر سجو کی کنیت ہے کہتے ہیں کسی عرب نے ایک خوف زدہ سجو کو پناہ دی تھی۔ سجونے موقع پا کر اسی اعرابی کو ہلاک کر دیا۔

۲۷۱۔ اَلْجَزَاۃُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ

(جو عمل کی قسم سے ہوتی ہے) ”جیسی کرنی ویسی بھرنی“ یا ”جیسے کرم ویسے پھل“۔

۲۷۲۔ تَجَسَّأَ لِقَمَانٌ مِنْ عَذْرِ شَبِیْعٍ

(لقمان نے پیٹ بھرے بغیر ہی ڈکار لے لی) ایسے شخص کے لئے کہتے ہیں جو فقیہ مہرتے ہوئے الداری ظاہر کرے یا کمزور ہوتے ہوئے بہادر بنے۔

۲۷۳۔ جَعَجَعَتْ وَلَا اَرٰی لَهَا طَحَنًا

(چکی کا شور ہے مگر اٹان نظر نہیں آتا) ”شور آشوری دے نہ کی“

۲۷۴۔ مَنْ جَعَلَ نَفْسَہُ عَظْمًا اَکَلَتْہُ الْکِلَابُ۔

(جو اپنے آپ کو ہڈی بنائے گا اوس کو کتے کھا لیں گے)

۲۷۵۔ لَا تَجْعَلْہَا بَیْضَةً السَّیِّئِیَّتِ

(اس کو مرے کا انڈا نہ بناؤ) مشہور ہے کہ مرغ اپنی عمر میں ایک بار انڈا دیتا ہے۔ اسی مفروضے پر ایک شاعر نے کہا ہے۔

۲۷۶۔ قَدْ رُدَّتِنَا مَرَّةً فِی السَّہْرِ وَاحِدًا قَا

(اے محبوب! تُو نے زمانہ میں ایک ہی مرتبہ ہم سے ملاقات کی ہے یہ ملاقات دوسری مرتبہ بھی کرے اور اس کو مرغ کا انڈا نہ بنا جیسے تجھنی کا انڈا یا پر غنما۔

۲۷۷۔ اخْفِیْ مِنَ السَّہْرِ۔ (زمانہ سے زیادہ بخل)

۲۷۸۔ جِدًّا اَلْخِزْرِیُّ لَا یَسُدُّ بَعْ

(خزری کی کھال کو دباغت نہیں دی جاسکتی) اس شخص کے لئے کہتے ہیں جس پر نصیحت کا رگ نہ ہو۔

۲۷۹۔ تَحْتَ جِلْدِ الصَّانِ قَلْبُ الْمَاذُوْبِ

(بھید کی کھال کے نیچے بھیدے کا دل) یعنی ظاہر میں بھید کی طرح بھیرا اور دل بھیدے کی طرح بے رحم۔

۲۸۰۔ جَلِیْسُ الْمَرْءِ مِثْلُہُ۔

(آدمی کا ہم نشین اسی جیسا ہوتا ہے)

۲۸۱۔ جَلِّیْ مَحِیَّتًا لِّظَرِّکَا۔

(دوست کو اس کی نظر نے ہی ظاہر کر دیا ہے) دوست کی نگاہ تباہ دیتی ہے۔

۲۸۲۔ لَا یَجْمَعُ سَیْفَانِ فِی عَمَدِی

(ایک میان میں دو تلواریں جمع نہیں ہوتیں)

۲۸۳۔ مَا یَجْمَعُ بَیْنَ الْاَرْدَنِ وَالنَّعَاوِ

(پہاڑی بکرا اور شتر مرغ جمع نہیں ہو سکتے) اردنی پہاڑی بکرا جو گیتا میں نہیں چل سکتا اور نعام شتر مرغ۔ پہاڑ کی بلندیوں پر نہیں چڑھ سکتا۔ دو متضاد چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

۲۸۴۔ اَجْمَعُ مِنْ تَمَدِی۔ (چوٹی سے زیادہ جمع کرنے والا)

۲۸۵۔ مَنْ اَجْمَلَ قِلًّا سَمِعَ جَبِیْلًا۔

(جو اپنی گفتگو اچھی رکھ گا وہ اچھی ہی سنے گا)

۲۸۶۔ اَلْجَمَلُ مِنْ جَوْفِہِ یَجْتَرُّ۔

(اونٹ اپنے ہی منہ سے جگالی کرتا ہے) اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو

اپنے کسب سے مدد کرتا ہے اور اس کے لئے بھی جو ایسے چیز سے نفع اُٹھائے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے۔

۲۸۷- اَلْجُنُودُ فَنُيُونُ (جنوں کی بہت سی قسمیں ہیں)

۲۸۸- يَكُنْ جَنْبُ مَضْجَعٍ (ہر پہلو کے لئے خواب گاہ ہے)

۲۸۹- يَكُنْ جَنْبُ مَضْجَعٍ

(ہر پہلو کو پھیرنا ہے) مطلب یہ ہے کہ ہر زندہ کے لئے موت ہے

۲۹۰- اِنْ جَانِبُ اَعْيَاكَ قَالَ لَحَقَّ بِيْكَ

(اگر ایک پہلو نے تھکا دیا ہے تو دوسرے پہلو سے مل جا یعنی پہلو بدل لے

۲۹۱- بَدَلَتْ عَلٰى اَهْلِهَا بَدَا قَتْلُ

(ہر قاتل نے اپنی ہی قوم پر ظلم کیا) دیکھو ۸۹

۲۹۲- اِنَّكَ لَا تَجْنِيْ مِنْ الشُّوْلِ الْعَنَبِ

(تو کانٹوں سے انگر کا پھل نہیں چنے گا) کانٹے کو کرسپل چن سکتے

۲۹۳- اَجْنَا وَهَا اَبْنَا وَهَا

(دوست و راز کی کہنے والے اس کے معار ہی ہیں) انجاء بانی کی جمع

ہے۔ جرم کرنے والا۔ اور ابناء بانی کی جمع ہے معنی معار۔ جمع کی یہ

مثال نادر ہے شل ایک یعنی بادشاہ کا مقلد جس نے ایک جنگ پر جاتے

ہوئے اپنی لڑکی کو قائم مقام بنایا تھا۔ لڑکی نے درباری امراء کے

مشورہ سے ایک عمارت گرانے کا حکم دیتے ہوئے اس نے یہ جملہ کہا

جو مثل بن گیا۔ مطلب یہ ہے کہ عمارت گرانے کا جرم وہی لوگ کر رہے

ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ بے سوچے سمجھے کام کو مٹانے کی

ضرورت پڑے تو یہ مثل کہی جاتی ہے۔

۲۹۴- هَلْ يَجْهَلُ قُلَانَا اِلَّا مَنْ يَجْهَلُ الْقَصْرَ

(فداں چیز سے وہی بے خبر ہو سکتا ہے جو پائند سے بے خبر ہو)

یعنی

فداں چیز چاند کی طرح روشن و مشہور ہے "چاند نکلا سب نے دیکھا"

۲۹۵- اَلْجَهْلُ مَطِيَّةٌ مِّنْ رَّكَبَهَا ذَلَّ وَمَنْ يَصْحَبُهَا ضَلَّ

جهالت وہ سواری ہے جو اس پر سوار ہوگا، ذلیل ہوگا اور جو اس

کے ساتھ لگا کر راہ ہو گیا)۔

۲۹۶- اَلْجَهْلُ شَرُّ الْأَصْحَابِ (جهالت بدترین ساتھی ہے)۔

۲۹۷- اَلْجَهْلُ مِّنْ عَقَرٍ

(بچہ سے بھی زیادہ جاہل) جو پتھر پر ڈنک مار کر پتھر کی بجائے

اپنے ڈنک کو ہی نقصان پہنچاتا ہے

۲۹۸- اَلْجَهْلُ مِّنْ فَنَاءٍ

(پروانہ سے بھی زیادہ جاہل) جو خود کو ہی ہلاک کر لیتا ہے۔

۲۹۹- وَعِنْدَ جَهَنَّمَ الْخَبْرُ الْيَقِيْنُ

(یقینی خبر تو جہنم کے پاس ہے) کہی معاملہ کی حقیقت کا علم ہونے

کے موقع پر ہونا جاتا ہے حصین غطفانی اور نبی جہنم کا ایک شخص

اخص ابن کعب نامی لکھنے کے ایک شخص نے ان کی تواضع کی حصین

غطفانی نے اپنے ساتھی اخص جہنم کی عدم موجودگی میں لکھی میرا

کو قتل کر دیا۔ اخص نے حصین کو ملامت کی تو حصین نے اس

کو سزا دیا۔ اس کے بعد جہنم نے محسوس کیا کہ حصین اس پر بھی اٹھ

صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اس سے قبل حصین کو قتل کر دیا اور

تمام سامان پر قبضہ کر لیا۔ راستہ میں ایک جگہ حصین کی بیوی ملی جو

اپنے شوہر کی تلاش کر رہی تھی اخص نے یہ شعر پڑھا۔

تَسْأَلُ عَنْ حَقِيْقٍ كُلِّ رَكْبٍ ۚ وَعِنْدَ جَهَنَّمَ الْخَبْرُ الْيَقِيْنُ

(وہ حصین کے بارے میں ہر سواری سے دریافت کرتی ہے حالانکہ جہنم

کے پاس یقینی خبر ہے) مشہور ماہر لغت اصمعی کا بیان ہے کہ یہ

مثل جہنم کی بجائے جہنم سے متعلق ہے۔ یہ ایک شخص کا نام

تھا جو ایک ایسے مقتول کا علم رکھتا تھا جس کے بارے میں قوم

اور مقتول کی لڑکی جستجو کر رہی تھی۔ یہ شعر اسی سے متعلق ہے۔

تَسْأَلُ عَنْ اَيُّهَا كُلِّ رَكْبٍ ۚ وَعِنْدَ جَهَنَّمَ الْخَبْرُ الْيَقِيْنُ

۳۰۰- اَجُوْدُ مِّنْ حَا قَتْلٍ (حاتم سے بھی زیادہ سخی)

۳۰۱- اِنَّ الْجَوَادَ قَدْ يَعْتَرُ

(امیل گھوڑا ابھی کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے) تجربہ کار آدمی سے لغزش

کے موقع پر کہا جاتا ہے۔

۳۰۲- اِنَّ الْجَوَادَ عَيْنُهُ فِدَا رَا

(امیل کی آنکھ ہی دانت دیکھنے سے مستغنی کر دیتی ہے) فراڈ۔ جانور کے

دانت دیکھ کر اس کی ٹانگہ اندازہ کرنا یعنی شرافت صورت ہی سے

ظاہر ہو جاتی ہے۔

۳۰۳- يَحْتَلِ جَوَادُ كِنَاةٍ

(ہر امیل گھوڑے کو کبھی نہ کبھی ٹھوکر لگتی ہے)

۳۰۴- جَاوِدٌ مَّكَاءُ وَجْهٍ

(بادشاہ کے پردوس میں رہ یا سمندر کے) دولت اہل ثروت ہی

رحول کی تیب سے زیادہ بھوکا۔ حول ایک عورت تھی جو اپنی کتیا سے گھر کی حفاظت کراتی، مگر اس کو بھوکا رکھتی۔ بھوک سے بے تاب ہو کر ایک مرتبہ کتیا نے اپنی دم کا ٹی لے۔

۳۱۵۔ اَجْوَعُ مِنْ ذُوْا لَآءٍ اَوْ اَجْوَعُ مِنْ ذِئْبٍ (بھڑیے سے زیادہ بھوکا) ذوالہ بھڑیے کا مختصر صیغہ نام ہے کہتے ہیں کہ بھڑیے کے منہ میں کوئی چیز ہونی ضروری ہے گویا وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ بھڑیے کا پیٹ بڑی کھلا دیتا ہے دشمن کو بد دعائیں کہتے ہیں رَمَاكَ اللّٰهُ بِدَاءِ الذِّئْبِ خدا اس کو بھڑیے کی بیماری (بھوک) میں مبتلا کرے۔

۳۱۶۔ اَجْوَعُ مِنْ قُرَادٍ (چھچھڑی سے زیادہ بھوکا) کہتے ہیں کہ چھچھڑی ایک سال تک اپنی پیٹھ اور ایک سال تک اپنا پیٹ زمین سے چٹا کر بھوکا رہ سکتی ہے۔ کافی فاصلے سے اونٹ کی موجودگی محسوس کر لیتی ہے اور اس کی طرف چلتی ہے۔ اونٹوں کے چور چھچھڑیوں کی حرکت سے اونٹوں کا ستر اٹھ لگتا ہے۔

۳۱۷۔ مَنْ جَالَ نَالَ (جو دور دور پکرتا ہے حاصل کر لیتا ہے) ”حرکت میں برکت ہے“ ۳۱۸۔ اَجُولُ مِنْ قَطْرِ پ (قطر سے زیادہ جلد ٹکانے والا) قطر ایک جانور ہے جو تمام رات نہیں ہوتا بلکہ چکر لگاتا رہتا ہے۔

۳۱۹۔ جَوْلَةٌ بَاطِلٌ سَاعَةٌ وَجَوْلَةٌ اَلْحَقُّ اِلٰی قِيَامِ السَّاعَةِ (باطل کا زمانہ ایک گھڑی ہوتا ہے اور حق کا زمانہ قیامت تک ہوتا) ۳۲۰۔ جَاءَ بِمُظَفِّفَةِ الدَّهْنِ (وہ گرم پتھر کو بھی بات کرنے والی چیز لایا) صنف۔ گرم پتھر یعنی پہلی چیز سے زیادہ سخت۔ یا پہلے حادثے سے بھی زیادہ شدید حادثہ۔

۳۲۱۔ جَاءَ بِالطُّحْرِ وَالزَّقَرِ (وہ سمندر اور زمین کی تہ کو لایا) طم سمندر یا بہت پانی کو اور رَمَ ثَرَى یا زمین کی تہ کو کہتے ہیں یعنی تمام ظاہری اور مخفی چیزیں یا بہت سی تعداد میں مال لے آیا۔ ۳۲۲۔ جَاءَ اَلْعِيَاثُ فَاَلْوِيْ بِالْاَسَاوِيْثِ (مشاہدہ آیا اور اسناد کو لے گیا) مشاہدہ کے بعد سند بیان کرنے

سے حاصل کرتی چاہیے۔

۳۰۵۔ كَمْجِيرٍ اَوْ عَاطِرٍ (بجڑ کو پناہ دینے والے کی طرح) شکاریوں نے ایک مرتبہ بجڑ کو گھیر لیا تھا۔ ایک اعرابی نے اس کو پناہ دیدی شکاری تو دلپس چلے گئے لیکن بجڑ نے سوتے میں پناہ دینے والے اعرابی کا پیٹ پھاڑ دیا جس نے اس کو دودھ پلا کر سیراب کیا تھا۔ اس اعرابی کے ابن علم کو جب معلوم ہوا تو اس نے کہا۔

۳۰۶۔ وَمَنْ يَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ مَعَ غَيْرِ اَهْلِهِ يَلَاقِي الْكَذِبَ لَا قِيَّ مُجِيرٌ اَوْ عَاصِدٍ (جو کوئی نااہل کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کو وہی جزا ملتی ہے جو ام عامر کے محافظ کو ملی جیسے ”سانپ کو دودھ پلانا“)

۳۰۷۔ كَالْمَسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمَضَاءِ بِاللَّتَارِ (اس شخص کی طرح جو پستی ہوئی زمین سے بھاگ کر آگ کی پناہ طلب کرے۔ یہ مثل اس شعر کا مصرع ہے۔ اَلْمَسْتَجِيرُ بَعْدَ وَعْدِهِ كَوَيْتِهِ كَالْمَسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمَضَاءِ بِاللَّتَارِ (مصیبت کے وقت عمرے پناہ چاہنے والا گرم زمین سے آگ کی پناہ چاہنے والے کی طرح ہے۔ ”چولے سے نکل کر بھاڑ میں گرنا۔ ۳۰۸۔ اَلْجَارُ تَحْتَ السَّارِ (پہلے پڑوس کو دیکھو پھر گھر کو) اسی قسم کا ایک اور قول ہے

۳۰۹۔ اَلرَّفِيقُ قَبْلَ الطَّبْرِيقِ (راستے سے پہلے ساتھی کو دیکھو) ۳۱۰۔ جَارَكَ الْاَدْنٰى لَا يَغْنُكَ اِلَّا قَصْنٰى (رادنی پڑوسی کی حفاظت کرو تا کہ اعلیٰ تم پر غالب نہ ہو سکے)

۳۱۱۔ جَاوَزَ الْحِزَامُ اَطْلُسَيْنِ (رنگ پشان سے بھی متجاوز ہو گیا) ”پانی سرے گز گیا“ ۳۱۲۔ تَجَوَّعَ الْحِذَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِشَدَائِمَهَا (شریف عورت بھوکا رہتی ہے مگر اپنے پستانوں کی کمائی نہیں کھاتی) یعنی دودھ پلانے والی دایہ نہیں بنتی ”ذلیل پیشے سے بچا۔ تے کے لئے کہا جاتا ہے۔“

۳۱۳۔ اَجْعَ كَلْبِكَ يَتَّبِعُكَ (اپنے کتے کو بھوکا رکھتا کہ تابع رہے) ”کتے کو سر پر نہ چڑھنا“ ۳۱۴۔ اَجْعُ مِنْ كَلْبَةٍ حَوْمل

کی ضرورت نہیں رہتی۔

۳۲۳۔ جَاءَ بِمَا صَايَ وَصَهَّتْ

روہ بولنے والا اور خاموش مال لایا، یعنی چوپائے اور سونا چاندی وغیرہ

۳۲۴۔ جَاءَ يَقْدِرُ فِي حِمَارٍ

روہ گدھے کے دو سینگ لایا، یعنی بھوٹ اور ناممکن بات

۳۲۵۔ جَاءَ بِبَنَاتِ الرَّعْدِ وَالْقَصِيلِ

روہ گر جھنے اور آواز والے ابر کے ساتھ آیا، صلیل یعنی آواز

۳۲۶۔ جَاءَ تَائِسًا اِذْ تَنَسَّيَا

(اپنے کانوں کو پھید کر لیا) حواریں ہو کر آیا، تَنَسَّيَا سے پٹ پھیدے

۳۲۷۔ جَاءَ تَائِسًا فَيَسَا عِضِيَّ

(اپنی کلنی کو پھید کر لیا) عِضِيَّ مرع کی کلنی یعنی فزبناک ہو کر آیا

”تاک پھلائے تیوری چڑھائے“

۳۲۸۔ جَاءَ اَعْلَىٰ بِكُرَّةِ اَبْيَهِيْمٍ

روہ تمام کے تمام آگئے، یعنی پیچھے کوئی باقی نہ رہا۔ بِكُرَّةُ کوگوں

کی جماعت کہہ سکتے ہیں۔ یہ مثل یوں بھی کہی جاتی ہے جَاؤْ ا

۳۲۹۔ اَعْلَىٰ بِكُرَّتِهِمْ وَبِكُرَّةِ اَبْيَهِيْمٍ۔ تمام ہی آگئے۔

اِذَا جَاءَ اَجَلُ الْبَعِيْرِ حَاوِلَ الْيَبْرِ

(جب اونٹ کی موت آتی ہے تو کنویں کے گرد گھومتا ہے) جب

گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔

۳۳۰۔ اِذَا جَاءَ الْحَيْنُ حَارَتِ الْعَيْنُ

(موت آتی ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔

۳۳۱۔ اِذَا جَاءَ الْقَدَارُ عَشِيَ الْبَصَرُ

(جب قضا آتی ہے تو آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے)۔

۳۳۲۔ جَاؤْ اَقْضَا وَاقْضِيْضًا

(چھوٹے بڑے سب آگئے قضیہ قضیہ پتھر کا بالکل چھوٹا ٹکڑا، قض

بڑا ٹکڑا)

۳۳۳۔ جَاءَ الْقَوْمُ قَعْمُهُمْ وَقَضِيْبُهُمْ قَوْمُ كَمَامٍ اَزَادَ اَكْمَامُ

۳۳۴۔ جِيْفَةُ لَا تُعْكِرُ بَحْرًا (ایک مردار سمندر کو گدلا نہیں کرتا)

ح

۳۳۵۔ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا اَلْتَرَدُّ وَكُرَّهًا

(جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے)

۳۳۶۔ لَا اُحِبُّ دَمِي فِي طَسْتٍ ذَهَبٍ

(مجھے اپنا خون سونے کے طشت میں بھی پسند نہیں) مرت

کے بعد تمام شان و شوکت بے کار ہے۔

۳۳۷۔ لِحَبْلِكَ الشَّيْءُ يَعْصِي وَيُصِمُّ

(کسی چیز سے تمہاری محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے) یہی

مفہوم اس شعر میں کہا گیا ہے۔

۳۳۸۔ وَعَيْنُ الرِّضَىٰ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ

وَلَكِنَّ عَيْنَ السَّخَطِ تُبْهِلُ الْمُسَاكِيَا

(رہنمائی کی آنکھ ہر عیب کی طرف سے بند ہوتی ہے مگر نا انصافی

کی آنکھ برائیوں کو غافل کرتی ہے)۔

۳۳۹۔ اَلْحُبُّ اَعْمَى (محبت اندھی ہوتی ہے)۔

۳۴۰۔ لَكِنَّ فِي الْحُبِّ مَشْوَرَةٌ (محبت میں مشورہ کی ضرورت نہیں)

۳۴۱۔ اَحِبَّ شَيْءًا اِلَى الْاِنْسَانِ مَا مُنْعَا

(سب سے زیادہ محبوب چیز انسان کو وہ معلوم ہوتی

ہے جس سے اس کو منع کیا جائے) یہی اس شعر کا مطلب ہے

۳۴۲۔ رَأَيْتُ النَّفْسَ تُكْرَهُ مَا لَدَيْهَا

وَتَطْلُبُ كُلَّ مُمْتَنِعٍ عَلَيْهِمَا

(میں نے نفس کو دیکھا کہ اپنے پاس موجود چیز کو پسند نہیں کرتا

اور ہر ممنوع چیز کو طلب کرتا ہے)

۳۴۳۔ مِنَ الْمَيِّتَةِ تَنْدُبَاتُ الشَّجَرَةِ

(ردانہ ہی سے تو درخت پیدا ہوتا ہے) یعنی چھوٹے کام سے

ہی بڑے نتیجے پیدا ہوتے ہیں)

۳۴۴۔ كُلُّ حَبَّةٍ لَهَا كَيْلٌ

(ہر دانہ کو پیمانہ میں بھرنے والا بھی ہوتا ہے)۔

۳۴۵۔ حَبْلُكَ عَلَى غَارٍ بِحَدِّ

(تیری رسی تیرے کو بان پہ ہے) غَارِبُ کو بان کا بالائی حصہ

مطلب یہ ہے کہ تیرے پوری طرح آزاد ہے۔ یہ مثل چرواہوں

کی اس عادت سے ماخوذ ہے کہ جب وہ اونٹ کو چرنے کے

لئے چھوڑتے ہیں تو ہمار کو بان پر ڈال دیتے ہیں تاکہ اس

کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ ان کا خیال تھا کہ اونٹ مہار کو

ربات مختلف شافیں رکھتی ہے، شیخوں جمع ہے شیخ کی وہ راستہ جو کسی وادی سے یا وادی کے بالائی حصہ سے گزرتا ہو یا جمع شیخی، یعنی شاخ یا ہر وہ چیز یا شاخ جو کسی دوسری شاخ میں لپیٹی ہوئی ہو۔ دو شیخوں: شاخ در شاخ ہونے والی ہے ایک بات سے بھی شاخوں کی طرح بہت سی باتیں مچھوٹی ہیں اسی معنی میں عوام کا مقولہ ہے الْحَدَّيْتُ بِبَحْرٍ بَعْضُهُ بَعْضًا رُكْنًا رُكْنًا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھینچتا ہے)

۳۵۵۔ كَالْحَادِي وَلَيْسَ لَهَا بَحِيرٌ

(اس ہانکنے والے کی طرح جس کے پاس اونٹ ہی نہ ہوں الحدیر پیچھے سے ہانکنا۔ قود: آگے سے کھینچنا۔ یہ مثل ایسے شخص کے لئے بولتے ہیں جو غیر ملوکہ چیز پر شیخی نگہارے یا غیر مستحق کی طرف منسوب ہو۔ "صلواتی کی دکان نانا جی کی فاتحہ")

۳۵۶۔ اَلْحَذَرُ اشَدُّ مِنَ الْوَقِيْعَةِ

(خوف، ہولناک واقعات سے زیادہ سخت ہے، ایسے موقع پر کہتے ہیں جب کوئی چیز دوسرے خوفناک معلوم ہوتی ہو اور راستے آئے تو اس خوف کے مقابلے میں بہت معمولی ہو۔)

۳۵۷۔ اِنَّ الْحَذَرَ لَا يَدْفَعُ الْمُسْتُوْرَ

(احتیاط مقدار کو دفع نہیں کر سکتی) تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی

۳۵۸۔ اَحْذَرُ مِنْ قِدْرِي

(قِدْر سے زیادہ ڈرنے والا) قِدْر ایک قضا پرندہ ہے، پانی کے اوپر اڑتا ہے تو بیک وقت پانی کے اندر کی چیزیں بھی دیکھتا ہے اور ڈرتے ڈرتے فضا میں بھی دیکھتا رہتا ہے اگر پانی میں کوئی کھانے کی چیز نظر آئے تو تیر کی طرح پانی میں غوطہ کھا کر کچھ لیتا ہے اور فضا میں بھی کوئی شکار نظر آجائے تو اس کی طرف اڑ کر دوڑ نکل جاتا ہے۔)

۳۵۹۔ اَحْذَرُ مِنْ عَذَابِ

(کوئے سے زیادہ محتاط) "کوئے سے زیادہ سیانا"

۳۶۰۔ اَحْذَرُ مِنْ خَوْفِ

(بھڑیے سے زیادہ چالاک) عربوں کا خیال ہے کہ بھڑیا اس قدر چالاک ہے کہ سوتے ہوئے بھی باری باری ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے

۳۶۱۔ كُلُّ الْحَذَاءِ يَعْنِي الْحَافِي الْوَقِيْعِ

دیکھتا ہے تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی

۳۶۲۔ رِبِّ حَثِيثٌ مَكِيْنٌ

(بہت سے جلد باز تاخیر کرنے والے ہو جاتے ہیں) ماکث اور مکث

دیر کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی کبھی جلدی مزید دیر کا سبب

بن جاتی ہے۔

۳۶۳۔ مَا فِي الْحَبْرِ مَبِيْعٌ

(پتھر میں کوئی مطلوب چیز نہیں) پتھر میں دھرا ہی کیا ہے تفلت خیر

کے لئے بولا جاتا ہے۔

۳۶۸۔ اَلْمُحَاذَرَةُ قَبْلَ الْمُنَاجَزَةِ

(اڑیں اناڑائی سے پہلے ہونا چاہیے۔) مُحَاذَرَةُ: دو چیزوں

کے درمیان آجانا۔ اڑیں آجانا۔ مُنَاجَزَةُ: رِوَاثِی کی سرعت

یعنی شریں پر گرنے سے پہلے ہی باز رہو۔ اگر مقابلے کی طاقت

نہ ہو تو بھاگنے میں محبت کرو۔

۳۶۹۔ اِنَّ الْحَدِيْدَ بِالْحَدِي يَفْلَحُ

(لوہے کو لوہے سے ہی چیرا جاتا ہے) فَلَاحٌ: چیرنا۔ فَلَاحٌ: کسان

"لوہے کو لوہا کاٹتا ہے"

۳۷۰۔ وَ يَجِدُ مِنْ بَعْضِ الْأُمُورِ أُمُورًا

(باتوں سے باتیں پیدا ہوتی ہیں) بات سے بات نکلتی ہے "یا" بات

کا بتنگڑ بن جاتا ہے"

۳۷۱۔ حَدَّثَ عَنْ مَعْنٍ وَلَا حَرْجَ

(معن سے روایت کرنا کوئی حرج نہیں) معن (بن زائدہ ابن عبد اللہ)

الشَّيْبَانِي عَرَب کا نہایت سخی شخص تھا۔ اس شخص کے لئے بولتے

ہیں جو کسی معاملہ میں وسوسہ اختیار کرے۔

۳۷۲۔ حَدَّثَ عَنْ الْبَحْرِ وَلَا حَرْجَ

(سمندر کی بات کہو کوئی حرج نہیں)

۳۷۳۔ حَدَّثَ خَرَفًا

(خرافہ کی بات) خرافہ ایک شخص کا نام ہے جس کے متعلق خیال تھا

کہ ایک مدت تک جن اس کے اوپر مسلط رہے۔ اس حالت میں جو

کچھ وہ دیکھتا اپنی قوم سے بیان کرتا اند لوگ اس کی تکذیب کرتے

اسی مناسبت سے ہر ناقابلِ فہم بات کو حدیث خرافہ کہنے لگے۔

۳۷۴۔ الْحَوِيْثُ ذُو شَجَوْنٍ

۳۷۲۔ اَحْرَزَ اَمْرًا اَجَلُهُ۔ (اُدھی کو اُس کی موت نے ذیرہ کر لیا) "موت نے ڈھیر کر دیا" کہتے ہیں کہ یہ عرب کی سب سے سچی ضرب المثل ہے۔

۳۷۳۔ اَحْرَسُ مِنْ كَلْبٍ۔ (کتے سے زیادہ نگہبان)

۳۷۴۔ اَلْحَرِصُ قَارِبُ الْجَزْمَانِ (لاپچ محرومی کا پیش خیمہ ہے)

۳۷۵۔ اَلْحَرِصُ مَحْرُومٌ۔ (لاپچی محروم رہتا ہے)

۳۷۶۔ اَحْرَصَ مِنْ تَمَلُّقٍ (چونٹی سے زیادہ حریص)

۳۷۷۔ لَيْسَ اَلْحَرِصُ بِزَائِلٍ فِي رِزْقِهِ (حریص اپنے رزق میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا)

۳۷۸۔ اِنَّمَا لِيَحْرَقَ عَلَى الْاَرْتَمِ (ردہ بھر پر دانت پیتا ہے) "اُم" ڈالھوں کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ اس کا غیظ و غضب مجھ پر شدید ہے۔

۳۷۹۔ حَرَّتْ لَهَا هَوَا رَهَا تَحِيَّتٌ۔

(اڈھنی کے بچے کو حرکت دیگا تو وہ پکارے گی) حواری۔ اڈھنی کا دودھ پیتا بچہ۔ فصیل: وہ بچہ جس کا دودھ چھوٹ گیا ہو محض غم یا غشی میں آواز نکالنا مطلب یہ ہے کہ اس کو غم یا دولاؤ تب وہ حرکت میں آئے گا۔

۳۸۰۔ اَلْحَرَكَةُ بَرَكَتٌ۔ (حرکت میں برکت ہے)

۳۸۱۔ اَلْحَزْمُ حِفْظٌ مَا وُكِّتَ وَتَرْكٌ مَا كُفِّتَ (احتیاط قبضہ کی چیز کو محفوظ رکھنے اور غیر ضروری چیز کو چھوڑنے کا نام ہے)

۳۸۲۔ اَلْحَزْمُ سَوْءُ الظَّنِّ بِالْاَنَاسِ۔

(احتیاط لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے)۔

۳۸۳۔ اَحْزَمُ مِنَ الْجَذْبَاءِ۔ (گرگٹ سے زیادہ محتاط)

گرگٹ جب درخت پر چڑھتا ہے تو ایک شاخ اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک دوسری نہ پکڑ لے۔ حربا میں الفت علامت تانیث نہیں بلکہ الحاقی ہے جیسے علیاً۔

۳۸۴۔ لَا يَحْزُنُكَ ذَمُّ هَسَا اَهْلِكَ۔

(اس خون پر تجھے رنج نہ ہونا چاہیے جو اس کے اہل ہی نے بہا لیا ہے)

۳۸۵۔ يَحْسَبُ الْمَطْوَرُ اَنَّ كُلَّ مُطَوِّرٍ۔

(بارش میں بھیگا ہوا سمجھتا ہے کہ ہر شخص بارش میں بھیگا ہے)

۳۸۶۔ لَا حَسَبَ كَالشَّيْءِ اَصْفَعٍ۔ (رواض جیسی کوئی شرافت نہیں)

۳۸۷۔ حَسْبُكَ مِنْ غِنَى شَيْعٍ دَسْرَتِي۔

دکھتے ہوئے اونٹنگے پاؤں والا ہر قسم کا جوتا پہن لیتا ہے وَقَعَ يُوقِعُ دَقْعَاتِ تَنَگے پاؤں ہونا اور پتھر یا سخت زمین پر چلنے کی وجہ سے پاؤں کے گوشت میں درد بھانا دَقْعٌ وہ برہنہ پاؤں کے پاؤں سخت زمین پر چلنے کی وجہ سے دکھنے لگے ہوں یہ شایعہ مصیبت زدہ کیلئے بولی جاتی ہے جو معمولی چیز پر قناعت کرے "بھوکے کو دور روٹی مینمت ہیں"

۳۷۲۔ اَلْحَرَضُ اِنْ مَسَّ الصَّدْرُ۔

(شریعت، شریف بن رہتا ہے خواہ اس کو تنگ دستی لپٹی ہوئی ہو) شریف ناداری میں بھی شریف ہی رہتا ہے۔

۳۷۳۔ حَرَّةٌ تَحْتَ قَرَّةٍ۔

(ٹھنڈک کے نیچے پیاس) حر: حرارت سے ماخوذ ہے معنی پیاس قرہ: ٹھنڈک ٹھنڈے دن کی پیاس سخت ہوتی ہے۔ ایسے شخص کے لئے کہتے ہیں جو کینہ و غضب محض رکھے اور خلوص ظاہر کرے۔

۳۷۴۔ بَغْيٌ مَكْتٌ۔ اَحْرَمَتِ الْجَعِيْرُ۔ (انگاریے سے زیادہ گرم)

۳۷۵۔ اَحْرَمَتْ نَارُ الْعَفْصِيِّ۔

(عصفی کی لکڑی کی آگ سے زیادہ گرم) عصفی: درخت کی لکڑی صرف جلانے کے ہی کام آتی ہے اور اس کی آگ نہایت تیز و گرم ہوتی ہے۔

۳۷۶۔ اَحْرَمُ مِنَ النَّارِ۔ (آگ سے زیادہ گرم)

۳۷۷۔ اَحْرَمُ مِنْ مَرْحَلٍ۔ (سہڑیا سے زیادہ گرم)

۳۷۸۔ اَحْرَمُ دَمْعِ الْمَقْلَاتِ۔

بچے کی سوگواراں کے آنسوؤں سے زیادہ گرم) مقلات وہ عورت ہے جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔ کہتے ہیں کہ غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں اور غشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

۳۷۹۔ اَلْحَرْبُ خَدَا مَسَمَةٌ۔

(لڑائی دھوکہ ہے) خَدَا: ایسی تدبیر جس کے ظاہر سے دھوکا تو ہو

۳۸۰۔ اَلْحَرْبُ يَسْجَالُ۔ (لڑائی میں مدد مل جاتا ہے) سجال اور مساجلہ جوا بگو کہ کام کرنا جو دوسرا ساتھ کرتا ہے۔

۳۸۱۔ اَلْحَرْبُ عَشْوَةٌ۔ (لڑائی ظالم ہے) عشم: رات میں

لکڑی کا ٹٹا خواہ اچھی یا بُدی لڑائی میں لبا اوقات اس شخص کو نقصان پہنچ جاتا ہے جس کا کوئی جرم نہ ہو اور مجرم نہ رہتا ہے۔

کَیْدٌ کَلِیْلٌ ہے اسمِ نوع ہے جَسْفٌ رَدِی کھجور یعنی نرگس اور توتلہ
وَدُ مکر وہ خصلتوں کا جامع یا دوطرف سے ظلم کرنے والا۔

۴۰۴۔ اَلْحَصَاةُ مِنَ الْعَبْلِ رکنری بھی پہاڑ کا جزو ہے۔

۴۰۵۔ کُلٌّ یَخْتَطِبُ فِی حَبْلِهِ

(ہر کوئی اپنی لکڑی میں رسیاں باندھتا ہے۔)

۴۰۶۔ کَحَا طِبَّ لَبِیْلٍ ررات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی
طرح، حاطب: رندھن جمع کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ایسا شخص

مرا ہے جو ہر اچھی بڑی چیز کو جمع کر لے۔

۴۰۷۔ حَظٌّ فِی السَّحَابِ وَعَقْلٌ فِی السَّرَّابِ

(نصیبہ آسمان پر اور عقل مٹی میں)

۴۰۸۔ حَظٌّ جَزَیْلٌ بَیْنِ شِدْقٍ صَنِيعٍ

(بڑا حصہ شیر کے جڑوں میں) یعنی بہت بڑی منفعت مگر شدید

خطرات کے درمیان۔

۴۰۹۔ اِلَّا حَظِیَّةٌ فَلَا اٰیَّةَ (صاحبِ نصیب نہیں تو کوتاہی کرنے

والی بھی نہیں) حَظِیَّةٌ خُطُوۃٌ سے مشتق ہے بمعنی مرتبہ عزت اور
اَکِیَّةٌ اَنُوۃٌ بمعنی تقصیر سے ماخوذ ہے اس مثل کی اصل مقدار یہ:

۴۱۰۔ اِنْ لَمْ تَكُوْنِیْ حَظِیَّةً وَلَا تَكُوْنِیْ اٰیَّةً (مُقَصَّرَةً)

(اگر تو معوز و صاحبِ رتبہ ہو تو کوتاہی کرنے والی بھی نہ ہو) اس

عورت کے لئے کہا گیا ہے جو اپنے خاوند کو محبوب نہ ہو مگر خاوند

کی محبت میں نہیں تو اپنی طرف سے خدمت و محبت میں کوتاہی

نہ کرے مطلب یہ کہ لوگوں کی مدارات کر کے ان سے اپنا مطلب نکالے۔

۴۱۱۔ مَنْ حَقَرَ حَفِیْرَ الْاَخِیْرِ کَانَ حَقْفَةً فِیْہِ

(جو کوئی اپنے بھائی کے لئے گڑھا کھودے گا، اسی کی موت

اس گڑھے میں ہوگی)۔

۴۱۲۔ مَنْ حَقَرَ حَقْفَةً وَقَعَهَا فِیْہَا

(جو کوئی گڑھا کھودے گا خود اس میں گرے گا) بجائے حُفْرَةٍ

کے مَوَاتَرٌ بھی مَرْدِیٌ ہے مَوَاتَرٌ وہ گڑھا جو بھیڑ یا یا بچوں کے لئے

کھودا جائے، وسیع تر معنی میں ہر مقامِ ہلاکت۔

۴۱۳۔ تَحْفَظُ اَخَالَکَ اِلَّا مِنْ نَفْسِہِ

(تو اپنے بھائی کی حفاظت کر سکتا ہے مگر اس کے نفس کی

نہیں کر سکتا)۔ مطلب یہ کہ لوگوں سے بچا سکتا ہے۔

(شکم پیری اور سیرابی تیرے لئے کافی مالدار ہے) امرِ احمق، کا توتلہ
ہے مطلب یہ ہے کہ اتنے مال پر قناعت کر اور جو بیٹ بھرنے اور
پایاں بچانے کے لئے کافی ہو اور باقی کی سخاوت کر دو۔

۳۸۸۔ حَسْبُکَ مِنْ شَرِّ سَمَاعِدٍ

(شر کا سن لینا ہی تمہارے لئے بہت ہے اس کو دیکھنے کی کوئی ضرورت)

۳۸۹۔ اَلْحَسْبُ مُطِیَّةُ النَّعَبِ (حسدِ مشقت کی سواری ہے)

۳۹۰۔ مَنْ حَسَنَ ظَنُّہُ طَابَ عَیْشُہُ

(جس کا گمان نیک ہو گیا اس کی زندگی اچھی ہو گئی)

۳۹۱۔ حَسَنٌ فِی کُلِّ عَیْنٍ مَا تَوَدُّ (ہر آنکھ کی نظریں وہی

چیز اچھی ہے جس کو وہ محبوب کہتی ہے)

۳۹۲۔ حُبُّ الشَّیْءِ یُعِیْ دِیْنُہِ (یہ سابقہ مثال کے ہم معنی ہے)

۳۹۳۔ حَسَنُ الظَّنِّ وَشَرُّ الْعَمَلِ

(حسن ظن بھنور ہے) و زلطہ بھنور۔ اور ایسا معاملہ جس سے

نجات مشکل ہے۔ ہلاکی۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے ساتھ حسن ظن ہی

کی وجہ سے آدمی دھوکے کی آگ سے یہ مثال الحذر ہو کر خود اپنے

بالتاسیس کے ہم معنی ہے۔

۳۹۴۔ یُکَلِّ حَسَنَ عَاثِبٍ (ہر اچھے کا عیب کرنے والا بھی ہوتا ہے)

۳۹۵۔ اَلْحَسَنَةُ بَیْنَ الشَّیْئَتَیْنِ

(نیکی دو برائیوں کے درمیان ہوتی ہے) یعنی خیرِ اَلْمَوْرِ اَوْ سَا طَمَہَا۔

(بہترین کام درمیانی ہوتے ہیں)۔

۳۹۶۔ اَحْسَنُ صِوۃِ الدُّنْیَا الْمُقْبِلَةُ

(آنے والی دنیا سے زیادہ خوبصورت)

۳۹۷۔ اَحْسَنُ مِنَ النَّارِ دَاغٌ سے زیادہ خوبصورت)

۳۹۸۔ اَحْسَنُ مِنَ الطَّوۡسِ (مور سے زیادہ خوبصورت)

۳۹۹۔ اَحْسَنُ مِنَ الْبَرِّ اَمِیۡتَہُ

(برہمنی و زراد کے زمانہ سے زیادہ خوبصورت)

۴۰۰۔ اَحْسَنُ مِنَ الشَّمْسِ الْقَمَرُ (چاند سورج سے زیادہ خوبصورت)

۴۰۱۔ اَلْاِحْسَانُ یَقْطَعُ اللِّسَانَ (احسان زبان کو بند کر دیتا ہے)

۴۰۲۔ اَحْشَکَ وَشَرُّ شَیْءٍ (میں تجھے گاس چراتا

ہوں اور تو مجھ پر گور کر رہتا ہے) ناشکرے اور حسن کش کو کہتے ہیں۔

۴۰۳۔ اَحْشَفَا وَشَوَّ کَیۡدَہُ (کھجور بھی ردی اور پیانہ بھی کم)

اگر وہ خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگے تو اس سے حفاظت نہیں کر سکتا۔

۴۱۴۔ حَفِظْتُ شَيْئًا وَنَبَيْتُ عَنْكَ أَشْيَاءَ
(ایک چیز تو نے رکھ لی مگر بہت سی چیزیں غائب ہو گئیں)

۴۱۵۔ حَافِظُ عَلَى الصَّدِيقِ وَكَوْفِي الْحَدِيقِ
(دوست کی حفاظت کر خواہ آگ میں کوہ کر ہی ہو)

۴۱۶۔ احْفَظْ مَا فِي الْوَعَاءِ لِشَيْءٍ الْوَكَاوِ
(جو کچھ برتن میں ہے اس کی حفاظت برتن کا منہ باندھ کر کرو)
وکار۔ مشکیزہ کا سر بند۔

۴۱۷۔ احْفَظْ مِنَ الْأَرَضِيِّ
(زمین سے زیادہ حفاظت کرنے والا)

۴۱۸۔ الْخَفِيفُ يُخْلِلُ الْأَحْقَادَ
(غیر دشمنی کو ختم کر دیتی ہے بحفیظہ غضب و غیرت)

جمع حفاظت۔ مطلب یہ ہے کہ کسی دوست یا رشتے دار پر ظلم ہوتے دیکھ کر غیرت جوش کھاتی ہے اور آدمی اپنا غصہ اور کینہ بھول کر اس کی مدد کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے ہم معنی ہے:

۴۱۹۔ عِنْدَ الشَّدَائِدِ تَذْهَبُ الْأَحْقَادُ
(مصائب کے وقت دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں)

۴۲۰۔ حَقٌّ يُضَرُّ خَيْرٌ مِنْ بَاطِلٍ يَسْرُورُ
(مفرت رساں حق مسرت رساں باطل سے بہتر ہے)

۴۲۱۔ الْحَقُّ خَيْرٌ مِمَّا يُقَالُ
(کھنے کی چیزوں میں بہترین چیز حق بات ہے)

۴۲۲۔ الْحَقُّ خَيْرٌ مِمَّا يُقَالُ (حق باعث غضب ہے)

۴۲۳۔ الْحَقُّ أَبْلَجُ وَالْبَاطِلُ لَجَلَجُ
(حق روشن اور باطل گمراہ ہوتا ہے) ابْلَجُ۔ روشن۔ لَجَلَجُ۔ ملتبس غیر واضح

۴۲۴۔ هَذَا أَحَقُّ مِمَّا نَزَلَ بِهِ تَوَكَّلْ
(یہ چھوڑنے کے لئے نہایت مناسب مقام ہے) یعنی جو مقامات

چھوڑنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان میں یہ مقام چھوڑ دیتے

کاسب سے زیادہ مستحق ہے۔

۴۲۵۔ احْقَدُ مِنْ جَمَلٍ
(راونٹ سے زیادہ کینہ نوز) "شتر کینہ"

۴۲۶۔ مَنْ حَقَرُ حَقَرًا
(جس نے حقیر سمجھا، وہ محروم ہوا) یعنی جس کو حقیر سمجھے کا محروم رکھ دیا

۴۲۷۔ احْقَرُ مِنَ الشَّرَابِ (خاک سے زیادہ حقیر)

۴۲۸۔ مَا حَذَّ جِلْدَكَ هِشْلُ ظَفِيرِكَ
(تیری کھال کو تیرے اپنے ناخن کی طرح کوئی چیز نہ کھلائے گی)

یعنی تم اپنی ضرورت کو آپ اچھی طرح پوری کر سکتے ہو۔

۴۲۹۔ إِذَا حَكَلْتَ قَرْحَةً مِيتَهَا
(جب میں نے کسی زخم کو کھجایا تو اس سے خون نکال لیا) جب کسی

مقصود کا ارادہ کیا تو اس کو انتہا تک پہنچا دیا۔

۴۳۰۔ تَحَكَّكْتَ الْعُسْرُ بِأَلَا فَعِي
(بچھو سانپ سے ٹکرایا ہے) یعنی جو اپنے سے زیادہ طاقتور

کے ساتھ جھگڑے "اتھیوں سے گئے کھانا"

۴۳۱۔ أَنْكَمُ مِنَ لُقْمَانِ (لقمان سے زیادہ دان)

۴۳۲۔ الْحِكْمَةُ صَالَةٌ الْمُؤْمِنِ
(حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے) مومن حکمت و دانائی کو اس طرح

حاصل کرتا ہے جیسے کوئی اپنی کھوئی چیز کو ڈھونڈ پاتا ہے۔

۴۳۳۔ أَحْكِي مِنْ قِرْدٍ (بندرے سے زیادہ نکال)

۴۳۴۔ إِذَا حَلَّتِ الْمَقَادِيرُ بَطَلَتِ الشَّدَائِدُ
(تقدیر اتر آئی تو تدبیریں بیکار ہو گئیں)

۴۳۵۔ أَحَلَّ مِنْ لَبَنِ الْأُمِّ (مال کے منہ سے زیادہ حلال)

۴۳۶۔ حَلَبَ الشَّهْرَ اسْطُرَّةً
(اس نے زمانے کے قصوں کو دہرایا ہے) یہ قول عرب کے قول:

حَلَبَ اسْطُرَّةَ النَّاقَةِ سے مستعار لیا گیا ہے شرط وہ دو تھیں

جو ایک ساتھ دو ہے جہاں مطلب یہ ہے کہ اس نے زمانے کے

دونوں شرطوں کو آزمایا ہے یعنی خبر کو بھی اور شر کو بھی "زمانے

کے سرد و گرم دیکھے ہیں"

۴۳۷۔ حَلَبَتْهَا بِالسَّاعِدِ الْأَشَدِّ
(میں نے اس کو طاقت و رکلائی سے دوہا یعنی قوت سے اپنا

حق حاصل کیا۔ ساہو۔ پہنچا۔ کلائی۔

۴۳۸۔ حَلَبَتْهَا بِالسَّاعِدِ الْأَشَدِّ
(میں نے اس کو طاقت و رکلائی سے دوہا یعنی قوت سے اپنا

حق حاصل کیا۔ ساہو۔ پہنچا۔ کلائی۔

۴۳۹۔ حَلَبَتْهَا بِالسَّاعِدِ الْأَشَدِّ
(میں نے اس کو طاقت و رکلائی سے دوہا یعنی قوت سے اپنا

حق حاصل کیا۔ ساہو۔ پہنچا۔ کلائی۔

۴۴۰۔ حَلَبَتْهَا بِالسَّاعِدِ الْأَشَدِّ
(میں نے اس کو طاقت و رکلائی سے دوہا یعنی قوت سے اپنا

حق حاصل کیا۔ ساہو۔ پہنچا۔ کلائی۔

۴۴۱۔ حَلَبَتْهَا بِالسَّاعِدِ الْأَشَدِّ
(میں نے اس کو طاقت و رکلائی سے دوہا یعنی قوت سے اپنا

حق حاصل کیا۔ ساہو۔ پہنچا۔ کلائی۔

۴۴۲۔ حَلَبَتْهَا بِالسَّاعِدِ الْأَشَدِّ
(میں نے اس کو طاقت و رکلائی سے دوہا یعنی قوت سے اپنا

حق حاصل کیا۔ ساہو۔ پہنچا۔ کلائی۔

۴۳۸۔ اُحْلَبُ مَلَبًا لَدَى شَطْرِهٖ -

اچھی طرح دودھ لے، نیز اچھی جستہ ہے (دوسروں کے ساتھ مساوی
جدوجہد کرنے اور شریک کار کی مدد پر آمادہ رہنے کے لئے بولا
جاتا ہے هَذَا اُحْلَبُ لَكَ شَطْرَهُ - اس دودھ
میں تیرا اچھی جستہ ہے، یعنی ایسے کام میں فریقین کا نفع ہے
۴۳۹۔ حَلْوِيَّةٌ تَشْمِلُ وَلَا تُسَدِّدُ -

(ایسی دودھ دینے والی ہے جو جھاگ والا دودھ دیتی ہے،
خالص دودھ نہیں دیتی) حَلْوِيَّةٌ - دودھیں جانور یہ ایسے
شخص نے لئے کہتے ہیں جو بخت و سر کے کمرے اور ان کو پورا
نہ کرے۔

۴۴۰۔ لَسْتُ مِنْ اَحْلَايِهِمَا رَتَاں کے ساتھیوں میں سے

نہیں ہے (احلاس: جاننے پہچاننے والے ساتھی -

اَحْلَاىَ الْغَيْلِ - سائیں گھوڑوں کے خدمت گار)

۴۴۱۔ حَلَقْتَنِي بِهٖ عِنَقًا مُّخَرَّبٌ - (عناق، مغرب نے اس

کا احاطہ کر لیا ہے) ناپائیدار اور نامانوس چیز کے۔ ایہ کہا
جاتا ہے: مغرب: انجانی چیز، مذکر و مؤنث مستعمل ہے۔

اور عناق، مغرب، سنت اور اسناقت دونوں طرح سے
استعمال کیا جاتا ہے۔

۴۴۲۔ هُمُ كَالْحَلَقَةِ الْمُقَرَّعَةِ لَا يُدْرِي اَيْنَ طَرَفَاهَا -

وہ ڈھلے ہوئے حلقے کی طرح ہیں معلوم نہیں کہ اس کے دونوں
سرے کہاں ہیں (فاطمہ بنت الحوشب اناریہ کا مقلد ہے جو
زیادہ طلبی کی بیوی تھی اور اپنے سات بیٹوں میں سے باری باری
ہر ایک کو سبک (فضل کنتی اور آخر میں کہہ دیتی هُمُ كَالْحَلَقَةِ
الْمُقَرَّعَةِ لَا يُدْرِي اَيْنَ طَرَفَاهَا -

۴۴۳۔ حَلِيٌّ اَصَمٌّ وَاُذُنِي عَنِوَصَمَاءُ -

(میرا علم ہرا ہے، کان بہرے نہیں) یعنی بردباری کی وجہ سے
فحش کلام سے احتراز کرتا ہوں اگرچہ کانوں سے سنتا ہوں)

۴۴۴۔ اَحْلَمُ مِنَ الْاَحْقَفِ - (احف سے زیادہ بردبار)

احف بن قیس بنو تمیم میں سب سے زیادہ حلیم تسلیم کیا جاتا تھا۔

۴۴۵۔ اَلْحَلِيمُ مَطِيَّةُ الْجَهْلِ (بردبار جاہل کی سواری ہے)

جو اس کے جاہل کے بوجھ کو برداشت کرتا ہے اور اس سے انتقام نہیں

۴۴۶۔ لَا تَمَكُنْ لِحُلُوٍّ فَتَسُدَّ تَوَلَّوْا وَلَا مَرَدًّا فَتَقْتَعِي -

رنہ بیٹھنا کہنگا کیا جائے اور نہ کروا کہ اگل دیا جائے۔
اِمْرَاؤُ: نکل جانا۔ اِنْقَاعٌ: تلخی کی وجہ سے اگل دینا یہی مفہوم
اردو میں ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

۴۴۷۔ اَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ - (شند سے زیادہ شیریں)

۴۴۸۔ اَحْلَى مِنْ نَيْلِ الْمُنَى - (حصولِ مراد سے زیادہ شیریں)

۴۴۹۔ اَحْلَى مِنْ حَيَاةٍ مُّعَادَةٍ (دوبارہ زندگی سے زیادہ شیریں)

۴۵۰۔ اَلْحَمْدُ مَعْنَمٌ وَالْمَدَمَةُ مَعْرَمٌ -

(تعلیف مالِ غنیمت ہے اور مذمت تاوان) یعنی تعلیف کا کام کیا
تو جبار کیا۔ تعلیف اس کی غنیمت ہے۔ کوئی برا کام کیا تو قصور
کیا۔ برائی اس کا تاوان ہے۔

۴۵۱۔ كَانَ حِمَارًا فَاسْتَأْنَقَ - (وہ گدھا تھا پھر گدھی بن گیا)۔

اِسْتَأْنَقَ: بمعنی صاراً تانا (گدھی) یعنی قوی تھا ذلیل و کمزور ہو گیا
عزیز تھا اور پھر ذلیل ہو گیا۔

۴۵۲۔ اَحْمَقُّ مِنْ دَخَمَةٍ -

(دُخَمَہ سے زیادہ احمق) دُخَمَہ ایک عورت تھی جس نے اپنے بچے کے
متحرک ہاتھ کو بھڑا سمجھ کر چیرا اور داغ کو پیپ بچھ کر کال دیا
جب اس سے پوچھا گیا تو جواب دیا بچہ تکلیف کی وجہ سے روتا
تھا اب آرام سے سو گیا۔

۴۵۳۔ اَحْمَقُّ مِنْ رَجَحَتِ - (رحلہ سے زیادہ احمق)

رحلہ ایک گھٹا ساگ ہے جو تیار کھیتوں کی بجائے سیلاب سے
تباہ شدہ نالیوں میں اگتا ہے۔

۴۵۴۔ اَحْمَقُّ مِنْ شَرْنَبَتٍ - (شرنبت سے زیادہ احمق)

شرنبت کی حماقتیں مشہور ہیں۔ ایک دفعہ اس نے بدلی کے سائے
کو علامت مقرر کر کے صبرا میں اپنا مال دفن کیا تھا۔ سایہ مٹ
گیا اور مال کی جگہ گم ہو گئی۔

۴۵۵۔ اَحْمَقُّ مِنْ عَجَلٍ -

(عجل سے زیادہ احمق) عجل بنی وائل کا شخص تھا جس نے گھوڑے کی
آنکھ بھڑک کر اس کا نام اَعُوْرَ (کانا) رکھا۔

۴۵۶۔ اَحْمَقُّ مِنْ نَعَامَةٍ - (شرمزغ سے زیادہ بے وقوف)

شرمزغ غزا کی تلاش میں نکلتا ہے۔ کہیں دوسرے شرمزغ

کے اڑے مل جا۔ تم میں تو ان کو سینے لگتا ہے اور اپنے
انڈے بھول جاتا ہے۔

۳۵۷۔ اَحْمَقُ مِنْ هَذِهِ النَّقَّةِ۔

سبقت سے زیادہ احمق (ہبنتہ بنی قیس ابن ثعلبہ کا ایک شخص
تھا جو اپنے لوگوں کی بکریاں چراتا تھا۔ موٹی بکریاں کو تو دوڑا
گھاس چراتا اور لاغر بکریوں کو دور رکھتا اور اس کی وجہ
یہ بیان کرتا کہ جن کو خدا تعالیٰ نے درست کیا ہے میں اس کو
خراب نہیں کروں گا اور جس کو اس نے خراب کر دیا ہے میں
اس کی اصلاح نہیں کرتا۔ اس نے اپنے گلے میں گھونگھوں
پڑیوں اور ٹھیکریوں کا ایک مار اپنی نشانی کے طور پر ڈال رکھا تھا
تاکہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ سوتے میں اس کے بھائی
نے وہ مار اتار کر خود پہن لیا صبح ہوئی تو ہبنتہ نے اپنے بھائی
سے کہا ”تم تو میں“ بن گئے۔ پھر میں کون ہوں۔ اردو میں
ہو تو حق معنی بے وقوف اسی ہبنتہ سے بنا ہے۔

۳۵۸۔ اَحْمَقُ مِنْ مَا صَنَعَ الْمَاءُ۔

(پانی چبانے والے سے زیادہ احمق)۔

۳۵۹۔ اَحْمَقُ مِنْ الْقَابِضِ عَلَى الْمَاءِ۔

(پانی کو پکڑنے والے سے زیادہ احمق)

۳۶۰۔ اَحْمَقُ مِنْ كَاطِحِ الْمَاءِ۔

(پانی کو سینگ مارنے والے سے زیادہ احمق)

۳۶۱۔ اَحْمَقُ مِنْ لَا طِمِ الْأَرْضِ بِخَدِيدٍ۔

(اپنے رخساروں سے زمین کو پتھر مارنے والے سے زیادہ احمق)

۳۶۲۔ اَحْمَقُ مِنْ كَاطِحِ الصَّخْرِ۔

(چٹان کو سینگ مارنے والے سے زیادہ احمق)

۳۶۳۔ يَحْمِلُ الشَّوْكَ إِلَى الْبَصَرَةِ۔

(بصرہ کی طرف کھجوریں لے جاتا ہے) یعنی ”اے بانس بریلی کو“

۳۶۴۔ لَا يَحْمِلُ إِلَّا نَفْسًا غَيْرَ طَائِفَةٍ۔

(اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا)

۳۶۵۔ لَمْ يَحْمِلْ خَاتَمِي مِثْلَ خَيْصَرِي۔

(میری کن انگل کی طرح کسی نے میری انگوٹھی کو برداشت نہ

کیا) اپنا کام آپ ہی سادھے (سنوارے)

۳۶۶۔ إِنَّمَا يَحْمِلُ الْكَلْبُ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ۔

(بوجھ اہل فضل پر ہی ڈال جاتا ہے) گل بوجھ یا ایسا شخص جو بار بار

۳۶۷۔ يَا حَامِلُ أَذْكَرُ حَلًّا رَايَ لَادِنَ وَالْكَوْلَةَ كَافَّةً۔

کو بھی یاد رکھنا) کچھ لوگ سامان لا کر سفر کے لئے نکلے رہیں

کی گریں بہت سخت لگا دیں۔ منزل پر اترے تو سامان کھولتے

میں بہت دشواری پیش آئی۔ جب دوسری منزل کے لئے

سامان لا دئے گئے تو کسی نے کہا یا حَامِلُ أَذْكَرُ حَلًّا۔ مثل کا

مطلب یہ ہے کہ کام کرتے وقت انجام پر نظر رکھنا ضروری ہے

۳۶۸۔ اَحْمَلُ مِنَ الْأَرْضِ (زمین سے زیادہ بوجھ اٹھانے والے)

۳۶۹۔ حَيَّيْ كَجَاشِيٍّ مَرَجَلُهُ۔ (وہ گرم ہو گیا اور اس کی

ہانڈی جوش مارنے لگی) یعنی بہت غضبناک ہو گیا۔

۳۷۰۔ يَخْبِي جَوَّارِيَهُ نَفْيُ الصَّفَادِ۔

(مینڈک کی ٹرٹراں کے تالابوں کی حفاظت کرتی ہے) جگرانی؛

جائزہ؛ یعنی حوض اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو بے فائدہ یعنی

سے کام نہ کال چاہے

۳۷۱۔ رَبِّ حَامِلٍ لَا نَفْعَ وَهُوَ جَادِعُهُ (بہت سے اپنی

ناک بچاتے ہیں مگر دراصل وہ اس کو کاٹنے والے ہوتے ہیں)۔

۳۷۲۔ حِمَاكَ أَحْمَلُ لَكَ۔ (اپنا گھیر ہی تیرا زیادہ محافظ ہے)

۳۷۳۔ أَحْمَلُ مِنْ أَلْفِ الْأَسَدِ۔ (شیر کی ناک سے زیادہ محفوظ)

۳۷۴۔ أَحْمَلُ مِنْ مُجِيرِ الْجَدَادِ۔

(ٹڈی کو پناہ دینے والے سے زیادہ محافظ) مُدْلَجُ ابْنِ سُوَيْدٍ طَائِي

نے اپنے صحن میں ایک گری ہوئی ٹڈی کو پناہ دینے کی وجہ سے

ایک جماعت کا مقابلہ کرتے کو تیار ہو گیا۔ جب وہ اس کے صحن

سے اڑ گئی تو پکڑنے والوں سے کہنے لگا اب تم اپنا کام کر سکتے ہو

وہ میری پناہ سے نکل گئی۔

۳۷۵۔ حَانِيَّةٌ مُخْتَصِبَةٌ۔

(مہربان خضاب لگانے والی ایک عورت اپنے شوہر کے مرنے کے

بعد کہا کرتی تھی کہ وہ اپنے اکھڑتے بچے ہی پر متوجہ رہے گی

اس کے باوجود وہ خضاب اور مہندی سے اپنی آرائش کرتی تھی

یہ مثل ایسے شخص کے لئے بولی جاتی ہے جس کا معاملہ شک میں مبتلا کرتا ہے

۳۷۶۔ الْحَاجَةُ تَفْتَحُ الْحَيَاةَ۔ (ضرورت جیلہ بیدار کر دیتی ہے)

”ضرورت ایسا دیکھنا ہے“

۴۷۷۔ حَالُ الْجَدْرِ يُضِنُّ دُونَ الْقَرْنَيْنِ۔

(شعر کے آگے غم حائل ہو گیا ہے) جَرْنَيْنِ غم بقرْنَيْنِ شعر۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ نعمان شاہ عرب نے انعام اور سزا کا ایک ایک دن مقرر کر رکھا تھا۔ سزا کے دن جو کوئی اس سے ملتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ نعمت کے دن ملتا تو اس کو مال ملتا تھا۔

اتفاق سے عبید بن ابرص شاعر جو اس کے خاص دربار میں سے تھا سزا کے دن اس کے پاس آگیا۔ نعمان نے کہا کاش! تو کسی اور دن ملاقات کرتا۔ اب تو اپنی جان کے علاوہ جو چاہے مانگ لے۔ عبید نے کہا اپنی جان سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں نعمان نے انکا کیا اور ساتھ ہی عبید شاعر سے اپنے اشعار سننے کی فرمائش کی۔ عبید نے کہا: حَالُ الْجَدْرِ يُضِنُّ دُونَ الْقَرْنَيْنِ۔ یعنی غم جان شعر نے بین حائل ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ ایک عرب لڑکے کا مقولہ ہے جس کو شعر گوئی میں بڑی مہارت تھی۔ باپ کے منع کرنے سے اس نے شعر کہنا ترک کر دیا اور اس کٹھن میں وہ سخت بیمار ہو گیا۔ آخر باپ نے شعر کہنے کی اجازت دے دی لڑکے نے کہا حَالُ الْجَدْرِ يُضِنُّ دُونَ الْقَرْنَيْنِ۔ یعنی اب ناخلاقیت یا موت کا غم شعر کہنے میں حائل ہو گیا۔

۴۷۸۔ حَالُ الْآخِلِ دُونَ الْأَمَلِ (امید کے ورے

موت حائل ہو گئی۔ یہی مثل کے قریب قریب ہی ہے)

۴۷۹۔ اَنَّ حَالَتِ الْقَوَسُ قَسَّهَتْ حَيْثُ صَائِبٌ۔

(اگر میری کمان ٹیڑھی ہے مگر میرا تیر نشانہ پر لگتا ہے) حَالَتِ الْقَوَسُ کمان کا ٹیڑھا ہو جانا۔ سَنَمٌ صَائِبٌ: نشانہ پر لگنے والا تیر۔ یہ مثل ایسے شخص کے لئے بولی جاتی ہے جس کی دولت و نعمت زائل ہو چکی ہو مگر اس کا کرم باقی ہو۔

۴۸۰۔ رَبِّ حَالٍ أَفْصَحُ مِنْ لِسَانٍ (سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے) صورت میں حاش میرس

۴۸۱۔ آخُولُ مِنْ أَيْ قَلَمُونٍ (بوتلوں سے زیادہ بدلتے والا)

(بوتلوں میں ایک کپڑا جس میں بہت سے رنگ نظر آتے ہیں)۔

۴۸۲۔ آخُولُ دِنْ أَيْ بَرَأَقَتِي (ابو براقش سے زیادہ متلون)

۴۸۳۔ الْخَادِي لَا يَنْجُو مِنَ الْخِيَا تِ۔ (سانپوں کا منہ بچتا

والا سانپوں سے نجات نہیں پاتا) یعنی ہوسانپ کچلے گا ہے کبھی نہ کبھی سانپ سے ضرور ڈسا جاتا ہے۔

۴۸۴۔ أَحْيَا مِنْ صَبٍ۔ (گودہ سے زیادہ متحرک) جواپنے بل

سے نکل کر واپسی کا راستہ بھول جاتی ہے

۴۸۵۔ حَيْكَةُ مَنْ لَا حَيْكَةَ لَهُ الصَّبْرُ۔

(جس شخص کے لئے کوئی حید نہ رہے اس کے لئے حید صبر سے مصیبت کی کوئی تدبیر نہ ہو تو کم از کم صبر تو کیا جاسکتا ہے یہی مجبور کا حید صبر ہے یا کوئی تدبیر ممکن نہ ہو تو صبر کے سوا کیا چارہ ہے۔ مجبوری کا نام صبر ہے۔

۴۸۶۔ مَا حَيْكَةُ الرَّاحِي إِذَا أَلْقَطَعَ الْوَحْدُ۔

(جب تات ہی ٹوٹ جائے تو تیر انداز کیا کرے)

۴۸۷۔ إِذَا حَانَ الْقَصَا صَاقُ الْقَصَا۔

(جب قضا آتی ہے تو قضا تنگ ہو جاتی ہے) ”موت سے فرار کہاں“

۴۸۸۔ لَا يُحْيِي الْبَيْضُ وَتَقْتُلُ الْفَرَاحُ۔

(چوزہ قتل کر کے انڈوں کو باقی مت رکھ) یعنی چھوٹی چیز کے لئے بڑی چیز کو ضائع نہ کرو۔

۴۸۹۔ حَيَاتِكَ مَنْ خَلَا فُؤَادُ۔

(تجھے خالی منہ والے نے سلام کیا ہے) کسی کانا کھلتے ہوئے کے پاس سے گزرتے ہوئے ایسے شخص نے سلام کیا مگر وہ جواب نہ دے سکا اس پر یہ مثال لی گئی۔ ساتھی کی بے توجہی کرنے کے موقع پر یہ مثل کہی جاتی ہے۔

۴۹۰۔ لَا تَحْيُ خَيْرُ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٌ فَيَنْتَسِي۔

(زندہ ہے جس سے امید کی جائے اور نہ مردہ جس کو بھلا دیا جائے) ناکارہ

۴۹۱۔ أَحْيَا مِنْ فَكَاةٍ۔ (نوجوان عورت سے زیادہ باحیا)

۴۹۲۔ أَحْيَا مِنْ مُعْتَدِرَةٍ۔ (پروہ نشیں عورت سے زیادہ حیا دار)

۴۹۳۔ أَحْيَا مِنْ هَدِيَةٍ۔ (دھن سے زیادہ حیا دار) ہدیہ: دھن کرکتے ہیں گریبا شوہر کو ہدیہ دینے کے لئے آراستہ کی گئی

۴۹۴۔ أَحْيَا مِنْ ضَبٍ۔ (گودہ سے زیادہ زندہ رہنے والا)

لوگوں کا خیال ہے کہ گودہ کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔

۴۹۵۔ اَلْحَيَاةُ بِمَثَلِ الْاِيْمَانِ -

حیاء ایمان کا جیسے ہے کیونکہ شرم و غیرت کی وجہ سے ہی آدمی بڑے کاموں سے بچتا ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحْشَ قَاتِلُكَ مَا يَشْتَدُّ (جب حیاء نہ کرے تو جو چاہے کر۔

۴۹۶۔ اِمَّا جَبَّتْ وَاِمَّا بَرَكَتْ (یا تیز دوری یا بیٹھ ہی گئی)

الحُبُّ تیز دوری یا غیرت کی انتہا یا شرکی انتہا۔

۴۹۷۔ اَخْبِرْنِي بِعَجْرِي وَبِعَجْرِي -

(میں نے اس کو اپنے تمام رازوں کی خبر دے دی) عَجْر: پیچ در پیچ رگیں۔ عَجْر: پیٹ کی تمام گرہ دار رگیں یعنی اپنے عیب و ثواب سب بتا دیئے۔

۴۹۸۔ تَخْبِرُ عَنْ مَجْهُولٍ مَرَاتِمُهُ - (اس کا ظاہر منظران

جلانے کی خبر دے رہا ہے) ظاہر باطن کی شہادت دیتا ہے۔

۴۹۹۔ يَخْبِرُكَ اَدْنٰى اَرْضٍ عَنْ اَفْصَا هَا (زمین کا ابتدائی

حصہ اس کے انتہائی حصے کی خبر دے رہا ہے)۔

۵۰۰۔ لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمَعَايِنَةِ -

(خبر آنکھوں دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی) شنیدہ کے مانند دیدہ

۵۰۱۔ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ - (جاننے والے ہی کے پاس

پہنچے ہوئے یعنی اسی سے پوچھا ہے جو جانتا ہے)

۵۰۲۔ يَخِيْطُ خَيْطَ عَشْوٍ (اندھی اونٹنی کی طرح روند رہا

ہے)۔ عَشْو: کمزور نظر اونٹنی، جو ہر چیز کو روند ڈالتی

ہے۔ اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو بے سوچے سمجھے کسی کام

میں پڑ جائے یا کسی کام کی ذمہ داری لے اور اس کے انجام

کا انتظام نہ کرے۔

۵۰۳۔ اَخْبَطُ مِنَ حَاطِبِ اللَّيْلِ

رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے سے زیادہ گڑ بڑ کر نبوالا)

ضروری اور غیر ضروری اشیاء کو جمع کرنے والا۔

۵۰۴۔ اَخْتَلَّ مِنَ الدَّائِبِ

(بھیر پڑے سے زیادہ دھوکے باند) خْتَلَّ: دھوکہ دینا

۵۰۵۔ مَنْ خَدَّ مَرَّالِ رَجَالِ خُبْرًا -

(جس نے لوگوں کی خدمت کی اس کی خدمت کی گئی) خدمت

سے خدمت سے یا "خدمت" سے عظمت ہے۔

۵۰۶۔ اَلْخَادِلُ اَخُو الْقَاتِلِ -

(رسوا کرنے والا قاتل کا بھائی ہے) گویا قاتل ہی ہے

۵۰۷۔ تَخْرِجُ الْبِقْدَ حَتَّى مَا فِي قَعْرِ الْبُرْمَةِ

(چمچ وہی نکالتا ہے جو ہنڈیا کے پینڈے میں ہوتا ہے

مِقْدَحَةٌ: ڈونٹی یا چمچ اور بُرْمہ: پتھر کی ہانڈی۔

۵۰۸۔ قَدْ يُخْرِجُ مِنَ الصَّدَقِ عَيْنُ الدَّرِّ

(کبھی سیپ سے موتی کے سوا کچھ اور بھی نکل آتا ہے)

۵۰۹۔ لَا تُخْرِجُ النَّفْسُ مِنَ الْاَمَلِ حَتَّى تَدْخُلَ فِيْهَا

نفس امیدوں کے پھندے سے نہیں نکلتا جب تک موت

کی حد میں نہ داخل ہو جائے)

۵۱۰۔ دُونَكَ خَرَطَ الْقِتَادِ -

(اس سے آسان تو قناد کے کانٹوں کو سوختنا ہے)۔

خَرَطَ: یعنی سخت مشکل یا تھکے پتے سونٹنا۔ قِتَاد: ایک

خاردار درخت ہے۔

۵۱۱۔ الْخُرُوفُ يَتَقَلَّبُ عَلَى الصُّوفِ

(بھیر کا پتھر اون پر کروٹیں لیتا ہے) خُرُوف: خرگوش

یا بھیر کا پتھر بے فکرے اور آرام سے لبر کرنے والے

آدمی کے لئے کہتے ہیں۔

۵۱۲۔ اَخْرَقَ مِنْ ثَمَاكَةِ الْعَذْلِ -

(سوت توڑنے والی سے زیادہ احمق)۔ ثَمَاكَةُ: الغزل (سوت)

کو توڑنے والی) قریش کی ایک عورت جو خادم لڑکیوں کے

ساتھ مل کر سوت کا تار کرتی تھی پھر خود ہی کاٹتے ہوئے

سوت کو توڑ دیتی تھی۔

۵۱۳۔ خَرَقَاءُ ذَاتِ رَيْقَةٍ

(بھوڑا، چتر، سکھڑ بننے والی) خرقاء: عورت جو کام

کو اچھی طرح نہیں کر سکتی۔ رَيْقَةُ: تَنَوُّقُ سے فائدہ کے

وزن پر نوع ہے۔ تَنَوُّقُ: کام میں ہوشیار دیکھنا

۵۱۴۔ خَرَقَاءُ عَيَّا بَسَةً - (بھوڑا عیب نکالنے والی خود نہیں

جانتی مگر دوسروں کے کام میں عیب نکالتی ہے)۔

گر وہ کسی چشمہ یا پڑاؤ سے کوپ کر جائے تو یہ حملہ کہا جاتا ہے۔ نَعَامَہُ شَرْمُغْ ہلکا ہلکا ہونے اور تیر رفتاری کے لئے مشہور ہے اور بعض نے کہا ہے کہ نَعَامَہُ بمعنی جماعت قوم ہے۔

۵۲۲۔ خَفِيفٌ طَعَامًا مَكَ تَأْتُمَنْ مَتَقَامًا
رہلکا ہلکا کھاؤ تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہو۔
۵۲۳۔ اَخَفَّ حِلْمًا مِنْ عَصْفُورٍ كَرِيحًا
میں آجانے والا عقل کی کمی اور طیش کے لئے چڑیا کی مثال دی جاتی ہے۔ چڑا ہوتا بھی غضبناک ہے۔

۵۲۴۔ اَخَفَّ مِنْ يَدِ اَعْدَائِهِ
دُزَل سے زیادہ ہلکا، بَرَائَتُ دُزَل سے
۵۲۵۔ اَخَفَّ مِنْ رَيْشِيَّةٍ (پرے زیادہ ہلکا)
۵۲۶۔ اَخَفَّ مِنَ النَّسِيمِ (باد نسیم سے زیادہ ہلکا)
۵۲۷۔ اَخَفَّ مِنَ الْهَبَاءِ (غبار سے زیادہ ہلکا)
۵۲۸۔ وَهَلْ يُخْفِي عَنِ النَّاسِ الْفُجُورَ
کیا لوگوں پر چاند بھی مخفی رہتا ہے، ایسے معاملے یا خوبی کے لئے کہا جاتا ہے جو چھپ نہ سکے۔

۵۲۹۔ مَا عِنْدَهُ خَلٌّ وَلَا خَمَرٌ
(نہ اس کے پاس سرکہ ہے نہ شراب) یعنی خیر بہ نہ شر
۵۳۰۔ مَا أَنْتَ بِخَلٍّ وَلَا خَمَرٍ (تیرے پاس تو سرکہ ہے نہ شراب)
۵۳۱۔ اَلْخَلَّةُ مَدْعُوًّا إِلَى السَّلَاةِ (فقر چوری کی طرف بلاتا ہے)
خَلَّةٌ فقر و حاجت اور سَلَاةٌ چوری کہہ رہے ہیں۔
۵۳۲۔ تَخَلَّصْتَ قَائِمَةً مِنْ قُوبٍ (انڈا چوزہ سے نجات پا چکا ہے) قَائِمَةُ انڈا اور قُوب چوزہ یعنی سختی سے چھٹکارا پا جانے پر بولتے ہیں۔ نواسد کے ایک بددی نے کسی تاجر کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا جب میں تجھے فلاں مقام تک پہنچا دوں گا بَرَّتْ قَائِمَةُ مِنْ قُوبٍ مراد یہ کہ میں تیری ذمہ داری سے بری ہو جاؤں گا۔

۵۳۳۔ اِخْتَلَطَ الْحَاكِلُ بِالْعَاقِلِ (رجال والا تیر والے کے ساتھ غلط ہو گیا) حَاكِلٌ۔ حال والا۔ تَائِلٌ۔ تیر والا۔ شکار کے بعد دونوں طریقے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ اختیار

۵۱۵۔ اَخَذْتُ مِنَ النَّفَاسِ عَلَى الْمَاءِ

(مجھے پانی پکڑنے والے سے زیادہ نقصان اٹھانے والا)۔

۵۱۶۔ مَنْ خَسِنَتِ الدِّينِيَّةُ اَعَدَّ كَلْبًا

(جو شخص بھیرٹھے سے ڈرے اس کو تیار کرنا چاہیئے) جو بھیرٹھے کا شکار کر کے۔ دشمنوں کے لئے تیاری کرنے کی ترغیب کے لئے کہا جاتا ہے۔

۵۱۷۔ لَا تَخْصِمُ مَنْ إِذَا قَالَ فَعَلَ

(اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کہے تو کر گزرے)

۵۱۸۔ اَيَّاكُمْ دُوْخُ خَضِرَاءَ الدِّمَنِ

(کوڑی براگی ہوئی سبزی سے بچو) جو زیادہ شاداب ہوتی ہے مگر غلاطت پر آگنے کی وجہ سے بدبودار ہوتی ہے یعنی ایسے ظاہری حسن سے جس کا باطن حراب ہو چکا ہو یا بیٹے

۵۱۹۔ اَلْخَطَا تَزَادُ الْعُجُوْلَ

(خطا جلد بازی کی راہ ہے) زاور راہ کی طرح غلطیاں ساتھ لے کر چلتی ہے۔

۵۲۰۔ مَعَ الْخَوَاطِيْءِ سَنُفَعُهُمْ صَائِبٌ

(خطا کرنے والے تیروں کے ساتھ نشانہ پڑ بیٹھنے والا تیر بھی ہوتا ہے) ایسا اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بہت مرتبہ غلطی کرنے کے بعد ایک مرتبہ ٹھیک کام کر جائے خواہی

وہ تیر چوٹا نہ سے خطا کریں۔

۵۲۱۔ مَنْ خَطَبَ الْحَسَنَاءُ نِعْمَتٌ مَهْمَا هَا

(جو کسی حسینہ کو منگنی کا پیغام بھیجے گا اس کا من بھی ادا کرے گا)

۵۲۲۔ اَخْطَبُ مِنْ سَعْبَانَ وَائِيلَ

سحان ابن وائل سے زیادہ خطیب (سحان قبیلہ بابلہ کا نہایت بلند فصیح و بلیغ شاعر اور خطیب تھا۔

۵۲۳۔ رَكِبَ خُطَابٍ جَوَابِ

(ہر بات سوال کا جواب ہوتا ہے)۔

۵۲۴۔ لَيْسَ اَلْمُخَاطِرُ مَعْمُوْدٌ وَّلَا كُوسَلَا خُطْرُهُ مِثْلُ كُودِ بَرْتَانِ

والا قابل تعریف نہیں ہوتا۔ چاہے وہ بے رحم ہی جائے۔

۵۲۵۔ خَفَّتْ نَعَامَتُهُمْ (ان کا شرمُغْ ہلکا ہو گیا اور جلد کرچ

کر گیا) خَفَّتْ کی جگہ شَاكَتْ بھی منقول ہے۔ کوئی بھی

کے جائیں تو پھر کوئی شکار ہاتھ نہیں آتا۔ بیشل اس وقت کسی جاتی ہے کہ جب کوئی معاملہ اس طرح گڑبڑ ہو جائے کہ اس کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئے۔

۵۲۸۔ اِخْتَلَطَ الدَّرْعِيُّ بِالْهَمَلِ

چرایا ہوا اور آزاد اونس مخلوط ہو گئے (مرعی: درہ ادنٹ جس کو چرایا جائے ہٹل دہ ادنٹ جس کو چرواہے کے بغیر آزاد چھوڑ دیا جائے۔

۵۲۹۔ اِخْتَلَطَ الْخَاشِرُ بِالزُّبَا دِ رگا ڈھا دودھ خراب دودھ کے ساتھ لی گیا) یہ شلیں ایسے لوگوں کے لئے دی جاتی ہیں جن کا معاملہ گڑبڑ میں پڑ جائے۔

۵۳۰۔ خَالِفَ نَفْسًا تَسْتَرَحِ

(اپنے نفس کی مخالفت کر دتا کہ راحت پاؤ۔

۵۳۱۔ خَالِفَ هَوَاكَ تَرْتَضِ

راپتی خواہش کے خلاف کر دتا کہ ہدایت پاؤ۔

۵۳۲۔ خَالِفَ تَنَكُّدَ (مخالفت کر دتا کہ تمہارا ذکر کیا جائے)

۵۳۳۔ اَخْلَفَ مِنْ عَرَقِ حُوبٍ (عرقوب سے زیادہ وعدہ

خلاف) عرقوب عمارت ہے۔ اسے ایک شخص کا نام ہے جو اپنے بھائی کا سوال پورا کر دے کہ یکے بعد دیگرے کچھوروں کے چھوٹے کچھوروں کے ادھر کچھ بوسے، گد رانے، کچنے اور پھر خشک ہونے اور چھوڑے بن جانے کے اوقات تک ملتا رہا اور آخر میں سب چھوڑے بن گیا اور بھائی کو کچھ نہ دیا۔ اسی وجہ سے وعدہ خلافی میں یہ ضرب امثل ہو گیا۔

۵۳۴۔ اَخْلَفَ مِنْ تَمَارِ الْحَيَاظِ (جنگل کی آگ سے زیادہ وعدہ خلاف) جو نہ سلگتی ہے اور نہ روشنی دیتی ہے۔

۵۳۵۔ خَلَقَ اللَّهُ لِلْحَرْبِ رَحَالًا

(اللہ تعالیٰ نے رطائی کے لئے اور ہی مرد پیدا کئے ہیں)۔

۵۳۶۔ خَلَا لَيْلَ الْجَوْ فَبِضْفِي وَأَصْفَرِي

(تیرے لئے میدان خالی ہو گیا۔ اب اندھے دے اوچھپا)

طرف بن عبد الشاعر کا قول ہے اس نے چندول کے شکار کے لئے جال لگایا اور تمام دن انتظار کیا۔ آخر اپنا جال لے کر چل دیا تو دیکھا کہ چندول اس کے ڈالے ہوئے دلے

چک رہے تھے اس وقت طرف نے کہا: یا ایک من فبيرة لعمر فکالک الجوف فببني واكفري۔ جب کسی مقصد کی راہ کے خطرات اور مشکلات دور ہو جائیں تو کہا جاتا ہے۔

۵۳۷۔ لَا يَخْلُو الْمَرْءُ مِنْ ذُو دِيَمْتِهِ وَعَدْلِهِ قَلْبًا

کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو کسی تعریف کرنے والے دوست اور بڑائی کرنے والے دشمن سے خالی ہو۔

۵۳۸۔ تَخَلَّ مَنْ تَخَلَّ حَايِدُهُ لَكَ فِي النَّاسِ غَيْرُهُ

(اس شخص کو چھوڑ دے جس میں بولائی کم ہو یا نہ ہو) لوگوں میں تمہیں اس کے علاوہ اور مل جائیں گے۔

۵۳۹۔ حَلَّ الْحِسَابِ لِيَوْمِ الْحِسَابِ

رحساب کو روز حساب کے لئے چھوڑ دو۔

۵۴۰۔ خَلَا ذُلُّ الْآخِي لِحَيَاتِهِ

(تمہاری تیری حیا کی زیادہ محافظ ہے) تمہاری میں دوسرے سے معاملہ ہی نہیں ہوتا جو بے شرمی کا سوال ہے، اس معنی میں وہ (سلامت) فی الوداع بھی کہا جاتا ہے۔

۵۴۱۔ مَنْ لَا يَخَافُ أَحَدًا إِلَّا يَخَافُهُ أَحَدٌ

(جو کسی سے نہیں ڈرتا اس سے کوئی نہیں ڈرتا)۔

۵۴۲۔ مَنْ خَانَ هَاكَ (جس نے خیانت کی ذیل ہوا)۔

۵۴۳۔ يَا رَبِّمَا خَانَ الْكُفْيُ الْكُفْيُ

(کبھی امانت دار خیر خواہ بھی خیانت کر جاتا ہے)۔

أَخْبَيْتُ مِنْ قَالِي عَنِ الْمَاءِ

(پانی کو گھٹی میں پکڑنے والے سے زیادہ ناکام)۔

۵۴۴۔ أَخْبَيْتُ مِنْ حَتَيْنِ

(خین سے زیادہ ناکام) حرف "س" میں رجب دیکھو تو خیریت

۵۴۵۔ لَا خَافَتْ (اگر تجھے اختیار دیا جاتا تو اختیار کر لیتی) افساً نہیں اس لئے بجز تسلیم کوئی چارہ نہیں۔

۵۴۶۔ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْ سَاطِئُهَا

(مساہلات میں یا زردی بہترین چیز ہے)

۵۴۷۔ خَيْرُ الْأُمُورِ مَا اسْعَدَكَ فِي ذَارِيكَ

(بہترین کام وہ ہے جو تجھیں دونوں جہان میں نیک بخت بناتا ہے)

۵۴۸۔ خَيْرُ الْأُمُورِ أَحْسَنُهَا مُعَبَّةٌ

(بہترین کام وہ ہے جو تجھیں دونوں جہان میں نیک بخت بناتا ہے)

- ۵۷۱۔ خَيْرُ الْمَالِ مَا نَفَعَ - (بہترین مال وہ ہے جو نفع پہنچائے)
اسی کے ہم معنی مقولہ ہے لَمْ يَنْفَعْ مِنْ مَالِكَ مَا دَخَلَكَ
نِزَاوہ مال ضائع نہیں ہوا جس نے تیری خیر خواہی کی
۵۷۲۔ خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاَعْلَهُ (اچھوں میں اچھا وہ جو اچھے کام کرے)
۵۷۳۔ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ فَرَحَ لِلنَّاسِ بِالْخَيْرِ -
(بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی سے خوش ہو)
۵۷۴۔ خَيْرُ الْوَعْظِ مَا دَعَا -

- (بہترین نصیحت وہ ہے جو برائی سے باز رکھد)
۵۷۵۔ الْخَيْرُ الْبَقِيّ وَانْ طَالَ الزَّمَانُ بِهَا
(بہترین علم وہ ہے جو وقت پر حاضری کرے)
۵۷۶۔ اِنَّ خَيْرَ الْفَعْلِ مَا خَصَرَتْ يَدُ الْبَهْرَيْنِ عِلْمٌ وَهُوَ جَوْدٌ تَوَدُّتْ بِرَحْمَتِكَ
لَا خَيْرَ فِي اَرْبِ الْقِتَالِ فِي لَهَبٍ
(اس مقصد میں کوئی خیر نہیں جو تجھے شاعروں میں ڈال دے)
۵۷۷۔ لَا خَيْرَ فِي السَّرَفِ وَلَا سَفَرٍ فِي الْخَيْرِ -
(اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں) یعنی
بھلائی زیادہ بھی ہو تو اسراف میں شمار نہیں ہوتی۔

- ۵۷۸۔ لَا خَيْرَ فِي ذِيٍّ يَكُونُ يَشَارُ فِج
رہی محبت میں کوئی خیر نہیں جو کسی سفارش کرنے والے کے ذریعہ ہو
۵۷۹۔ الْخَيْلُ تَجْرِي عَلَى مَسَاوِيهَا (گھوڑا اپنے پیروں کے باوجود
چلتا ہی ہے) یعنی شرافت اصلی اس کو چلنے پر اور دوڑنے پر مجبور
کرتی ہی ہے۔ اسی طرح شریفیت الاصل آدمی تنگی اور مشقت
کے باوجود اپنے کرم کا اظہار کرتا ہے۔

- ۵۸۰۔ الْخَيْلُ اعْلَمُ بِمَوَاسِيهَا
(گھوڑے اپنے سواروں کو خوب جانتے ہیں) مطلب یہ کہ معاشرت کا
آدمی کو اختیار کر دے۔
۵۸۱۔ اَخْيَلُ مِنْ عُرَابٍ (کوسے سے زیادہ اترانے والا)
کوڑا برے انداز سے چلتا ہے۔
۵۸۲۔ اَخْيَلُ مِنْ دِيْلَةٍ (درغ سے زیادہ ناز دکھانے والا)

5

۵۸۳۔ دَاءُ مَا لَا يَنْقَطِعُ بِالْأَمَارَةِ (سمندر کی لہروں کے پیرہے سے نہیں

(بہترین کام وہ ہے جس کی انجام میں توفیق کی جائے) مُفْتَبَةً؛
عاقبت انجام کر سکتے ہیں اسی معنی الْأَعْمَالُ بِجَوَائِزِهَا استعمال
ہوتا ہے۔

- ۵۵۹۔ خَيْرٌ أَنَا ذِيكَ عَظِيمِينَ -
(تو نے اپنے بہترین کو لٹ رہی ہے یعنی مستحق محروم اور غیر مستحق
فیضیاب ہو رہے ہیں۔
۵۶۰۔ كَفَاءُ الزَّكَاةِ -
(برتن کو انڈھا کرنا) ایسے موقع پر بولتے ہیں۔

- ۵۶۱۔ خَيْرُ أَهْلِكَ مَنْ كَفَاكَ -
(تیرا بہترین رشتہ دار وہ ہے جو تیرے لئے کافی ہو جائے۔
۵۶۲۔ خَيْرُ الْبَيْتِ نَاكِحٌ يَتَنَا جِزْ -
(بہترین خرید و فروخت نقد ہے)
۵۶۳۔ خَيْرُ حَالِيكَ تَنْطَبِ حَيْثَا -

- (اپنے بہترین دوہنے والے کو سینگ مارتی ہے) ایک بکری کو دو
آدمی دوہتے تھے۔ نرمی سے دوہنے والے کو وہ سینگ مارتی تھی
اور دوسرے کو وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ یہ شل ایسے شخص کے لئے استعمال
کی جاتی ہے جو اپنے خوش معاملہ لوگوں سے برائی کرے۔
۵۶۴۔ خَيْرُ الْخِيَالِ حِفْظُ اللِّسَانِ
(بہترین خصلت زبان کی حفاظت کرنا ہے)
۵۶۵۔ خَيْرُ سَلَاَحِ الْمَرْءِ مَا وَقَاهُ -

- (آدمی کا بہترین ہتھیار وہ ہے
جو اس کو بچائے) یعنی جو بھی وقت پر کام کر جائے۔
۵۶۶۔ خَيْرُ الْأَصْحَابِ مَنْ ذَكَرَكَ عَلَى الْخَيْرِ -
(بہترین ساتھی وہ ہے جو خیر کی طرف تیری رہنمائی کرے)
۵۶۷۔ خَيْرُ الْعَمَلِ مَا كَانَ عَيْنَ الْقُدْرَةِ
(بہترین معافی وہ ہے جو قدرت حاصل ہونے کے وقت دی جائے)
۵۶۸۔ خَيْرُ الْعِلْمِ مَا خَصَّرَكَ -

- (بہترین علم وہ ہے جو ضرورت کے وقت مستحضر ہو جائے)
۵۶۹۔ خَيْرُ الْغِنَى الْقُضُوعُ (بہترین مال داری قناعت ہے)
۵۷۰۔ خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ
(بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور مراد کو ظاہر کرتے والا ہو)

کیا جاسکتا؟ اُدُّمًا وِسمندر۔ اَزْمَاتٌ جمع زَمَتْ۔ تھیل یا دریا میں شکار کرکھیریں کا بنا ہوا بیڑہ

۵۸۶۔ اَذْبَدَ غَيْرَ يَرِيَّةٍ وَاقْبَلَ حَسْبَ يَرِيَّةٍ (اس کی اچھی عادت نے پیٹھ پھیر لی اور بد خلقی سامنے آگئی) غَرِيْبٌ: اچھی عادت۔ سَرِيْرٌ: کراہیت و بد خلقی یعنی پسندیدہ خصلت ختم ہوگئی اور بد خلقی آگئی۔

۵۸۷۔ اَلْتَدَابِيْرُ نِيْسَتٌ، اَلْمَعِيْشَتِيْرُ (تدبیر آدمی روزی ہے)

۵۸۸۔ كَذَابٌ بَغِيٌّ وَقَدْ حَلِمَ اَلْاَدِيْمُ (کھال رنگے والے کی طرح جب کہ کھال فاسد ہو چکی ہو)

۵۸۹ حَلِمَ اَلْحِلْدُ (کھال شراب ہوگئی اور اس میں کیر پڑے پڑے سوراخ ہو گئے) اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی معاملے کی اصلاح کی اس وقت کوشش کرے جب وہ فساد کی وجہ سے ناقابلِ سنبھال ہو چکا ہو

۵۹۰۔ دَخَلَ فُضُوْلِيْ تَارَفًا فَقَالَ حَطَبٌ رَطْبٌ (فضولی خواہ مخواہ دخل دینے والا) آگ میں گھس گیا اور کہنے لگا کہ ایندھن گیا ہے۔

۵۹۱۔ يَدْخُلُ شُعْبَانٌ فِي رَمَضَانَ (شعبان کو رمضان میں داخل کر رہا ہے) بے سرو پا بائیں کرتا ہے۔

۵۹۲۔ لَا تَنْخُلْ بَيْنَ الْبَيْتَيْنِ وَتَشْتَرِهَا (بیازہ اور اس کے چھکے کے درمیان مت گھسور خواہ مخواہ مداخلت نہ کرو)

۵۹۳۔ لَا تَنْخُلْ بَيْنَ الْعَصَا وَحَايِيْهَا (ٹنڈر سے اور اس کی چھال کے درمیان ہرگز داخل نہ ہو) لجاؤ۔ درخت یا کھڑکی کی چھال یعنی دو درختوں کے درمیان برائی کہ ساتھ مت داخل ہو۔

۵۹۴۔ رَحُلٌ دَرَحَالِبٌ (ہر دو دھک کا کوئی دو سنے والا بھی ہے)

۵۹۵۔ اَدْرَهَا وَارِثُ اَبْنَتٍ (اس کو دوہ لو خواہ وہ انکا در کرے) یہ مقرر اس آدمی کے لئے کہا جاتا ہے جو میانہ باندھے بغیر دوہ نہ دو سنے دے یعنی ضرورت یا بھلائی کو باصرار حاصل کرو۔

۵۹۶۔ ذَرَّ اَلْمَقَاسِيْدَ اَوَّلِيْ مِنْ حَبِيْبٍ اَلْيَحْيَا (مقاصد کو دفع کرنا نعمتیں حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے)

۵۹۷۔ سَيَنْزِيْجُ فِي كُلِّ وَكِيْرٍ (ہر گھوڑے میں گھس جانا ہے) یعنی ہر معاملے میں دخل دیتا ہے اور ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔

۵۹۸۔ اَلتَّارَاهِمُ مَرَاهِمُ (روپے مرہم کا کام کرتے ہیں)

۵۹۹۔ اَلتَّارَاهِمُ اَرْدَا حُتَيْبِيْلٌ (روپے ہتی ہوئی روپیں ہیں)

۶۰۰۔ مَنْ كَذِبًا اَرْلَشَطَ يَنْتَفِ لِحَيْثِيَّتِهِ (جو شخص کسبھی سے

زخمی نہ ہوتے گا وہ اپنی ہی داڑھی کے بال اکھاڑے گا)

۶۰۱۔ لَا يَدُ عَنِ لِحْيَتِيْ اِلَّا اَخُوْهَا (بڑے معاملے کے لئے اس کا ماہر ہی بلایا جاتا ہے)

۶۰۲۔ اُدْعُ اِلَى طَعَانِكَ مَنْ تَدْعُوْهُ اِلَى اِحْفَانِكَ (اپنی نیزہ بازی کے لئے اسی کو بلاؤ جس کو اپنے پیالے پر دعوت دیتے ہو)

۶۰۳۔ اِرْفَحِ الشَّرَّ يَجُوْدُ اَوْ عَمُوْدٌ (شر کو دفع کرو خواہ کھڑی سے یا لوسے کی صلاح سے)

۶۰۴۔ اَدَقُّ مِنَ اَلْهَبَاءِ (غبار سے زیادہ باریک)

۶۰۵۔ اَدَقُّ مِنَ اَلْكُحْلِ (سرم سے زیادہ باریک)

۶۰۶۔ اَدَقُّ مِنَ الدَّقِيْقِ (آٹے سے زیادہ باریک)

۶۰۷۔ اَدَقُّ مِنْ حَقْوِ السَّيْفِ (تلوار کی دھار سے زیادہ باریک)

۶۰۸۔ دَلَّ عَلَى عَاقِلٍ اِحْتَارُهُ (عقلندی کا انتخاب عقلندی کو ظاہر کر دیتا ہے)

۶۰۹۔ اَلدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ لَفَاعِلٌ (نیکی بتانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے)

۶۱۰۔ دَلِيْلٌ عَقْلٍ اَلْمَرْءُ فِعْلُهُ وَدَلِيْلٌ عِلْمٍ قَوْلُهُ (آدمی کی عقل کی دلیل اس کا عمل ہے اور اس کے علم کی دلیل اس کا قول ہے)

۶۱۱۔ كَيْسٌ اَلدَّلُوْا اِلَى اَلرِّشَاءِ (ڈول رستی کے بغیر کچھ نہیں) ڈول رستی کہ بغیر بے کار ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی کو قوت و ہمت اپنے رشتہ داروں ہی سے ہوتی ہے۔

۶۱۲۔ دَمِيْتُ لِحْيَتِكَ قَبْلَ التَّوْمِ مَضْطَجَعًا (لیٹ کر سونے سے پہلے اپنے پہلو کے لئے بسترم کر لو تَدْمِيْتُ نرم کرنا مطلب یہ ہے کہ حادثات کے نازل ہونے سے پہلے ہی تیار ہو)

۶۱۳۔ دَمَعَتٌ مِنْ عَوْدٍ اَدْعِيْمَةٌ بَارِدَةٌ (اندھی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی بڑی نعمت ہے)

۶۱۴۔ اَذْنَاءُ مِنَ الشَّيْءِ (تسبے سے زیادہ حقیر) شَرُّ جَوْتِ (چپ) کا تشبہ

۶۱۵۔ كُلُّ دِقِّيْ دُونُنَا دِقِّيْ (ہر قریب سے دوسے کو قریب موجود ہوتا ہے) دِقِّيْ

منافقانہ تعریف کرنے والے کے لئے سبوتے ہیں۔

۴۲۹۔ كَمَا سَوَّيْنِ شِدَاكَ -

(جیسا بدلہ دوگے ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا)۔

۴۳۰۔ الدِّينُ النَّصِيحَةُ - (دین خیر خواہی کا نام ہے) نصیح کے

معنی سینا اور جوڑنا ہیں۔ لہذا نصیحت کے معنی ہیں لوگوں

کو باہم نزہت و یک کرنا اور ان کو جدا کرنے والی چیزوں کو
دور کرنا)

۴۳۱۔ الدِّينُ مَيْسَمُ الْكِذَابِ -

(مکافات و جزاء شریعوں کی علامت ہے)

ذ

۴۳۲۔ ذِيْبٌ اسْتَنْجَجَ -

(بھیرٹ یا بھیرٹ بن گیا ہے) اسْتَنْجَجَ بمعنی صارت بھیرٹ بن گیا،

۴۳۳۔ الذِّبُّ خَالِيًا اَسَدٌ - (بھیرٹ یا خالی میدان میں

شیر ہوتا ہے) جب بھیرٹ یا انسان کو تنہا پاتا ہے۔ شیر کی

طرح حملہ کرتا ہے۔ اس لئے تنہامت رہو۔ ایک مقولہ

ہے عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الذِّبَّ اَبْتًا يَهْدِيكَ

فَاصْبِرْ لِمَا جَاءَكَ مِنْهُمُ يُغْفِرْ لَكَ مِنْهُمُ اِسْمُ بَكْرِي كُوَيْدَا

ہے جو گٹے سے دور رہو۔ مضمون حدیث ہے۔

۴۳۴۔ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذِيْبًا اَكَلَتْهُ الدِّبَابُ -

(جو بھیرٹ یا نہ بنے گا اس کو بھیرٹ لے کھا جائیں گے)۔

۴۳۵۔ مَا الدِّبَابُ وَمَا مَرَقَتُهُ -

(کیا مکھی اور کیا اس کا شراب) "کیا پڑی اور کیا پڑی کا شراب"

۴۳۶۔ الذِّبَابُ يُعْرِفُ وَجْهَ اللِّبَانِ (کھیاں دودھ والے کے چہرے

کو پہچانتی ہیں) ذِيبَانٌ ذِيبَانٌ کی جمع ہے۔

۴۳۷۔ ذَخَارُ الدِّجَالِ اَوَّلِيَّ امْنٍ اَوْ خَارِا لِمَا (آدمیوں کا ذخیرہ

کرنا مال کے ذخیرہ کرنے سے بہتر ہے) نیکی اور احسان سے آدمیوں

کا ذخیرہ کر۔ کوشش میں ہستی نہ کرو۔

۴۳۸۔ ذَقْنُهُ تَغْنِيْطٌ - (چھو کر دیکھو چھو کر غنیمت کرنا)

اس کی اصل یہ ہے کہ کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ ایک الگ بیٹھا

تھا۔ اپنے والوں نے کہا۔ تو بھی کچھ کر دیکھو گا تو ہمارے

بروزن فیصل دُکُوئے مشتق ہے بمعنی قریب۔

۴۱۶۔ اَذْفَى مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ -

(شرہ رگ سے زیادہ قریب) جل الوریڈ۔ رگ گلہ۔

(شرہ رگ)

۴۱۷۔ دُنْيَاكَ مَا اَنْتَ رَفِيْهِ -

(تیری دنیا وہ ہے جس میں تو موجود ہے)۔

۴۱۸۔ اَللّٰهُ يَوْمَئِذٍ يُّوْمَانٌ يُّوْمٌ لَّكَ وَيَوْمٌ عَدُوْكَ

رزمانہ کے دو دن ہیں۔ ایک دن تیرے نفع کا ہے اور

دوسرا تیرے مضر کا۔

۴۱۹۔ يَكُنْ ذَهِيْ رَجَالٌ - (ہر زمانہ کے لئے آدمی ہوتے ہیں)

پورا ماقول یہ ہے يَكُنْ مَقَالٌ مَّقَالٌ وَ يَكُنْ ذَهِيْ رَجَالٌ

(ہر مقام کے لئے ایک کلام اور ہر زمانہ کے لئے کچھ لوگ ہوتے ہیں)۔

۴۲۰۔ مَا الدَّهْرُ اِلَّا هَكَذَا فَاصْبِرْ لَهُ رِزْمَانِ اَيْسَا هِيَ لَمْ

صبر کرو "زمانہ کی رفتار ایسی ہے"

۴۲۱۔ بَيْنَ هُتٍّ مِّنْ قَارُوْرَةٍ قَارِعَةٍ رَّغَالٍ شَيْشٍ سَيْلٍ

رہا ہے) اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو وعدوں سے خوش

کرنے کی کوشش کرے۔

۴۲۲۔ يَمْ دَاوُءُ طَبِيٍّ - (اس کو ہرن کی بیماری ہے) یعنی کوئی

بیماری نہیں۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ ہرن بھی بیماریاں ہوتا ہے

۴۲۳۔ يَكُنْ دَاوُءُ دَوَاءٍ

(ہر مرض کی دوا ہوتی ہے) ہر دھک کا علاج موجود ہے۔

۴۲۴۔ بَيْنَهُمْ دَاوُءُ الصَّدْرِ اَيْ -

(ان کے درمیان سوکنوں کی بیماری ہے) مضر اثر طرہ کی جمع

ہے بمعنی سوکن سوکن کا صمد و دشمنی مشہور ہے۔

۴۲۵۔ دَوَاءُ الدَّهْرِ الصَّبْرُ عَلَيْكَ -

(زمانہ کی سختیوں کا علاج صبر کرنا ہے)

۴۲۶۔ اِنَّ دَوَاءَ لَشَيْءٍ اَنْ تَحُوْصِدَ - (پھنسنے کی دوا ناگاہی ہے)

۴۲۷۔ نِعْمَ الدَّوَاۤءُ الشَّقِيْ اَنْ تَحُوْ (بہترین دوا پزیر

ہے۔ اَزْمٌ بمعنی پرہیز کرنا۔ کھانے سے باز رہنا۔

۴۲۸۔ اِنَّا دُوْرَتُ هٰذَا وَفَوْقَ مَا فِيْ نَفْسِكَ -

(ہیں اس سے نو کم ہوں مگر تیرے دل کی بات سے اوپر ہوں)

ان لوگوں کے لئے کہتے ہیں جن کے سفر کے راستے مختلف اور متضاد ہوں۔

۶۶۶۔ ذَهَبُوا أَوْ تَقَرَّوْا أَيْدِي سَبَا أَوْ يَأْدِي سَبَا

(وہ اہل سبائی کی طرف چلے گئے یا منتشر ہو گئے) یعنی ایسے منتشر ہوئے کہ پھر اخبار ہی نہ ہوا۔ مثل قسم طلب ہے۔ سبائی کے باشندوں کو سیلاب عرصے سے ڈرایا گیا تو وہ بن سے نکل گئے اور میں کا جدھر منہ اٹھا چلا گیا۔ ایدری یا اکادری سے مراد نفوس ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ایدری کے معنی راستے ہیں یعنی ان کو راستوں نے ایسا متفرق کیا جیسے اہل سبائی مختلف راستوں سے متفرق ہو گئے تھے۔

۶۶۷۔ سَبَا هَبَّ الْعُرْفُ بَيْنَ الشَّوْ وَالنَّاسِ

(احسان خدا اور بندہ کے درمیان چلتا ہے) یہ مثال عطیتہ کے شعر کا آخری مصرعہ ہے۔ مصرع ادب یہ ہے:

۶۶۸۔ وَمَنْ يَفْعَلْ الْعُرْفَ لَا يَنْفَعُ جَوَارِدُ (جو احسان کرتا ہے

اس کا احسان نہیں ملتا) لَمْ يَنْفَعْ هَبَّ مِنْ مَّا لَكَ مَا وَعَظْتَ۔ (تیرے مال سے وہ حصہ ضائع نہیں ہوا جس

نے تیری خرابی کی)

۶۶۹۔ اِذْ هَبَّ اِلَى حَيْثُ اَلْقَتْ رَحْلَهَا اَمْرُ قَشْعَمَ

(وہاں جا جہاں ام قشعم نے اپنا کجاوہ ڈالا) ام قشعم ایک اونٹنی کا نام ہے جس نے اپنا کجاوہ آگ میں پھینک دیا تھا۔

اسی دقت سے یہ ضرب المثل بن گئی۔

۶۷۰۔ وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْ عَنْ حَرْبَتِهِمْ يَتَهَدَّدُ

(یعنی جو شخص اپنے مطالب کی مدافعت نہیں کرتا وہ منہم ہوجاتا ہے) یعنی جو شخص اپنے حقوق کا دفاع نہ کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اس کے حقوق ضائع ہوجائیں گے۔

۶۷۱۔ كُلُّ ذَاتِ ذَنْبٍ تَقْتُلُ (ہر دامن والی ناز و اداسے چلی

ہے) دولت مندا اپنے مال و نعمت پر فخر و ناز کرتا ہے۔

۲

۶۷۲۔ رَأْسُ الدِّينِ مِجَّةُ الْيَتِيمِ

(اصل دین یقین کا صیغہ ہوتا ہے)

پھونک نکل گئی۔ ڈوبنے لگا تو ساتھی کو مدد کے لئے پکارا اس نے جواب میں یہ فقرہ کہا جو مثل بن گیا۔

۶۵۸۔ ذَهَبَ اَمْسٍ بِمَارِئِهِ

(کل اپنے حالات کے ساتھ گزر چکی)

۶۵۹۔ ذَهَبَ الْحِمَارُ يَطْلُبُ كَرْنَيْنِ فَعَادَ مَصْلُومَ

الْاُذُنَيْنِ (گدھ سائینگ لینے گیا تھا، کان کڑا کے لوٹا) اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو فائدے کے لالچ میں اپنا سرمایہ بھی کھو بیٹھے۔

۶۶۰۔ ذَهَبَ دَمُهُ دَرَجَ الرِّيَّاحِ اَوْ اَدْرَجَ الرِّيَّاحِ

(اس کا خون ہوا کے رستے گیا) یعنی رائے گاں کہ اس کے قصاص کا کوئی طلب کار نہ ہوا۔ اذراج جمع درج یعنی ہوا کی گزرگاہ۔

۶۶۱۔ ذَهَبَ بَنِي الصَّخْوَةِ وَ التَّكْرِبَةِ

(وہ ہوش اور مدہوشی کے درمیان گیا) یعنی ایسی حالت میں کہ کچھ شعور تھا اور کچھ نہ تھا۔

۶۶۲۔ ذَهَبَ فِي السَّمَاءِ (وہ فضا میں چلا گیا۔ سہمی) زمین آسمان

کے درمیان کی فضا مراد یہ ہے کہ بے کار ہو گیا۔ ہوا اڑاے گئی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے۔ ذَهَبَتْ اَبْلَهُ السَّمَاءِ اس کے اوٹ

ہر طرف متفرق ہو گئے، جَدَّيْ فَهَلَانَ السَّمَاءِ (فلاں ایسے کام میں گیا جس کو وہ نہیں جانتا)

۶۶۳۔ ذَهَبَتْ حَيْفُ لَا ذُبَابَ نَهَا

(گرم ہوا اپنی عادت کے مطابق چلی) جب آدمی اپنے حال میں مشغول ہو یا اپنی عادت کے مطابق کام کرے۔ حَيْفُ۔ درگرم جو نباتات

کو خشک کر دیتی ہے اور حیوانات کو پیاس لگاتی ہے۔

لَا دِيَانَهَا۔ بمعنی یقیناً دیتھا ہر آدمی کے اپنے حال میں مصروف ہونے کے وقت یا اپنی عادت کو لازم پکڑنے کے وقت بولتے

ہیں۔

۶۶۴۔ اِنْ ذَهَبَ عَيْدُ قَعِيدٍ

(ایک گور خر نکل گیا تو ایک تو جال میں موجود ہے) جو ہو گیا سو ہو گیا اسی پر فحاشی کر دیکھو: یہاں معنی گور خر اور دیکھا

معنی شکار کا حال ہے۔

۶۶۵۔ ذَهَبُوا تَحْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ (ہر ستارہ کے نیچے گئے)

۶۷۳۔ كُلُّ رَأْسٍ يَمُّ صَدَاحٌ

(ہر سر میں درد ہوتا ہے)۔ ہر سر میں کوئی سودا ہے۔

۶۷۴۔ رُبُّ رَأْسٍ حَصِيدٌ لِّسَانٍ

(بہت سے سر زبان کے کاٹے ہوئے ہیں۔ حَصِيدٌ بمعنی محضوڈ ہے۔)

۶۷۵۔ كَانَتْ عَلَى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ

(گرمیاں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں) ساکن وصات جیسے پرندوں کا شکاری۔ کلید پرندوں کی جماعت و اجرا طائر ہے۔

۶۷۶۔ رَأَى الْكُوكَبَ ظَهْرًا

(اس نے طہر کے وقت ستارہ دیکھا) شدت حالات کے موقع پر کہا جاتا ہے: "دن میں تارے نظر آنے لگے۔"

۶۷۷۔ إِذَا رَأَيْتَ الرَّيْحَ عَاصِفَةً فَتَطَا مَنَ

(جب آندھی سخت دیکھو تو پست ہو جاؤ) جب کوئی معاملہ غالب آتا نظر آئے تو اس کی اطاعت کرو۔

۶۷۸۔ رَأَى الْقَادِرُ وَالْوَارِدُ

(اس کو ہر آنے والے نے دیکھا ہے) سورج نکلا سب نے دیکھا۔

۶۷۹۔ أَرَيْتُمَا السُّهْلَى تَرْبِيَنِي الْقَمَرُ

(میں اس کو سہا دکھا رہوں اور وہ مجھے چاندی دکھا رہی ہے) باریک باتوں کو نہیں سمجھتی "سوال آسان جواب رساں"

۶۸۰۔ يَدَيِ الشَّاهِدِ مَا لَا يَدْرِي الْعَاقِبُ

(حاضر وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا)

۶۸۱۔ وَمَا تَرَانِي يَا جَمِيلُ أَرَاكَ

(جیل جیسا تم مجھے جانتے ہو میں بھی تمہیں جانتا ہوں)

۶۸۲۔ سَوِّفَ تَرَنِي إِذَا تَجَلَّى الْعُبَّارُ بِأَفْدُسٍ تَحْتَهُ أَمْعَادُ

(جب بخار پھٹ جائیگا تو عنقریب دیکھ لو گے کہ تمہارے نیچے پھوٹا ہے یا گدھا۔ حقیقت کھل جائے گی اصل شعریوں ہے۔)

فَسَوِّفَ تَرَنِي إِذَا أَنْكَشَفَتِ الْعُبَّارُ

أَفْدُسَ تَحْتِ رِجْلِكَ أَمِيرَ حِمَارٍ

۶۸۳۔ أَرَيْتُمَا النَّهْرَ أَرَكِيهَا مَطْرَةً

(تو مجھے دکھا کہ وہ چنکرا ہے تو میں تجھے دکھا دوں گا کہ وہ برس رہا ہے) ہضمیر سکا یہ

کی طرف راجع ہے۔ سَحَابَةٌ بَرْزَخٌ کی طرح چنکرا اور دل دار بادل۔ ایسی چیز کے لئے کہا جاتا ہے جس کے آثار و علامات ظاہر ہونے سے اس کا وقوع یقینی ہو جائے۔

۶۸۴۔ رَأَى شَيْخٌ خَيْرٌ مِنْ مَسْتَهْدٍ عُلَاوٍ

(بوڑھے کی رائے روکے کی موجودگی سے بہتر ہے)

۶۸۵۔ لَا رَأَى لِمَنْ لَا يَطَاعُ

(اس شخص کی کوئی رائے نہیں جس کی اطاعت نہ کی جائے) "حضرت علی نے اپنے ساتھیوں پر خطاب کرتے ہوئے ایک خطبہ میں فرمایا تھا"

۶۸۶۔ إِنَّ الرَّاْيَ لَيَسِيءُ بِالنَّطْقِي

(رائے محض گمان ہی سے نہیں ہوتی) حال کی ترغیب کے لئے بولا جاتا ہے۔

۶۸۷۔ رَبِّكَ وَصَا جِبْتَ لَكَ مَكْنَنٌ بِ عَيْدِهِمَا

(اپنے آقا اور دوست پر جھوٹ نہ لگاؤ)

۶۸۸۔ كَالْمَرْبُوطِ وَالْمَرْحَى خَصِيْبٌ

(بندھا ہوا اور چراگاہ سرسبز) موقع بہت اہم و مہموریاں حاصل۔

۶۸۹۔ إِنَّ الْكَرْثِيَّةَ تَفْشَأُ وَالْغَضَبُ

(دودھ غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے) تَرْثِيَّةٌ ترش دودھ جس میں میٹھا ملا یا ہوا ہو۔ دہی یا کستی۔ تَفْشَأُ بمعنی ساکن کوئی جھوکا ایسے شخص کا مہمان ہوا جس سے ناراض تھا اس کی تواضع میں دودھ دے

لستی پلائی گئی تو اس کا غصہ فرو ہو گیا۔

۶۹۰۔ رَجَعِ بِخَفِيٍّ حَنِينٍ

(وہ حنین کے موزے لیکر لوٹا) ناکام واپسی کے موقع پر کہا جاتا ہے ایک اعرابی نے مشہور موزی حنین سے موزوں کا بھاؤ کیا۔ سودا دینا

تراعرابی کو فریب دینے کے لئے اس نے یہ تدبیر کی کہ دونوں موزے کچھ قاصد سے اعرابی کے رستے میں ڈال دیئے۔ اعرابی ایک

موزے کے پاس سے گذرا تو سوچا کہ یہ حنین کے موزوں جیسا خوبصورت موزہ ہے، دوسرا بھی ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، چھوڑ کر پل دیا۔ کچھ دیر چل کر دوسرا موزہ دیکھا۔ اپنی سواری

اور سامان چھوڑ کر پہلا موزہ لینے کے لئے واپس ہوا اور حنین اس کی سواری اور سامان لے کر چلتا ہوا۔ اعرابی گھر

پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ سفر سے کیا لایا تو اس نے جواب دیا کہ "حنین کے دو موزے"

۶۹۱۔ حَنِينٌ كَدُوْمُوزَةٍ

(حنین دو موزوں کا)

۶۹۱۔ حَتَّى يَرْجِعَ الدَّارُ فِي الصَّرْعِ -

(یہاں تک کہ دودھ ٹھنڈی ہو لوٹ جائے) محال چیز کے لئے بولتے ہیں
۶۹۲۔ حَتَّى يَرْجِعَ السَّهْمُ عَلَى قَوْصِهِ (یہاں تک کہ تیر اپنے فوق
(چلے) پر لوٹ جائے) کہا جاتا ہے کہ لَا أَفْعَلُ ذَاكَ حَتَّى يَرْجِعَ السَّهْمُ
عَلَى قَوْصِهِ - یعنی میں اس کام کو ہرگز نہ کروں گا۔ قَوْصٌ: کمانت
کا وہ حصہ جو چلتے پر رکھا جاتا ہے۔ ناممکن چیز کے لئے بولتے
ہیں۔

۶۹۳۔ أَلِجَالٍ أَرْبَعَةٌ (آدمی چار ہی قسم کے ہیں)

عالم جو جانتا ہے اور جاننے والے کا علم رکھتا ہے۔ یہ قابل اتباع
ہے۔ عالم بے خبر جو علم رکھتا ہے مگر اپنے علم سے بے خبر ہے
یہ بیدار سونے کا مستحق ہے۔ عالم جو علم نہیں رکھتا مگر
اپنی بے علمی کو سمجھتا ہے۔ یہ طالب اور مستحق ہدایت ہے۔
بے علم دے خبر۔ جو علم نہیں رکھتا اور اپنی بے علمی سے بھی بیخبر
ہے۔ یہ جاہل اور قابل ترک ہے۔

۶۹۴۔ هَلْ يَرْجِعُ مَطَرٌ مِنْ غَيْرِ سَحَابٍ

(کیا بادلوں کے بغیر بارش کی امید کی جاسکتی ہے؟)

۶۹۵۔ لَا تَرْجُحْ خَيْرٌ مَنْ لَا يَرْجُو خَيْرٌ لَكَ

(ایسے شخص سے خیر کی امید نہ رکھو جو تیری خیر کی امید نہیں رکھتا)

۶۹۶۔ رَحُلٌ يَعْقُلُ عَارِياً مَجْرُوحًا -

(کجاوہ بھی زخمی کو بے کاپٹا ہے) غارِبٌ: کوٹن کا بالائی حصہ

۶۹۷۔ اَرْحَمُ مَنْ دُونَكَ يَرْحَمُكَ مِنْ قَوْلِكَ

(اپنے سے نیچے پر رحم کر دے تاکہ تم سے اوپر والے تم پر رحم کریں۔

۶۹۸۔ اَرْحَمُ مِنَ الشَّعْرِ بِالنَّيْصَرَةِ -

(بھروسہ میں کھجور سے زیادہ سستا۔)

۶۹۹۔ اَرْحَمُ مِنْ سُرَّابٍ (مٹی سے بھی زیادہ سستا)

۷۰۰۔ رَدُّ الْحَجَرِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ لَكَ -

(پتھر جہاں سے آیا وہیں لوٹا دو) پتھر کا جواب پتھر

۷۰۱۔ مَنْ يَبْرُدُ السَّيْلَ عَلَى اَدْرَاجِهِ

(سیلاب کو اس کے بالائی راستوں کی طرف کون لوٹا

سکتا ہے؟)

۷۰۲۔ اَدْرَا جِ السَّيْلِ - (بہندی سے آتی ہوئی سیلاب کی گزرگاہیں

ناممکن بات کے لئے کہا جاتا ہے۔

۷۰۳۔ يَتَسَّأَلُ الْوَدَّ لَآ يَجِدَ نَعَمَ (ہاں کے بعد نہیں) بت

برتا جاتا ہے) اسی جیسا ایک شعر ہے

حَسَنٌ قَوْلٌ نَعَمٌ مِنْ بَعْدِهِ وَكَبِيرٌ قَوْلٌ لَآ يَجِدُ نَعَمَ

(نہیں کے بعد اچھی بات ہے اور ہاں کے بعد نہیں بڑی بڑی

بات ہے)۔

۷۰۴۔ اِذَا رَزَقَكَ اللهُ مَحْصَنَةً فَلَا تُخَوِّقْ يَكَالَ

(جب اللہ نے تجھے چھپا دیا ہے تو تر اپنا ہاتھ مت ملا۔)

۷۰۵۔ رَزَقُ اللهِ لَكَ كُنَّاكَ

(اللہ کا دیا رزق ہے تیری محنت نہیں) صرف محنت سے نہیں

محنت کے ساتھ عطا الہی سے رزق ملتا ہے۔ احسان جتانے

والے کے جواب میں بھی کہا جاتا ہے۔

۷۰۶۔ رَزَمَةٌ وَلا دَرَّةٌ - (ادھنی کی آواز ہے مگر دودھ نہیں)

رَزَمَةٌ: ادھنی کی وہ آواز جو بچے کو دودھ پلانے کے وقت

بکالتی ہے۔ وَدَّرَةٌ: دودھ کی کثرت۔ اس شخص کے لئے

بولتے ہیں جو وعدہ کرے مگر وفا نہ کرے "ڈھول کے پل"۔

۷۰۷۔ اَرْسِلْ حَكِيمًا وَلا تُؤْصِمَ -

(عقل مند کو قاصد بناؤ اور اس کو وصیت نہ کرو) یہ حضرت زبیرؓ

کے شعر کا آخری مصرع ہے۔ پورا شعر یہ ہے

اِذَا كُنْتَ حَاجِبًا مَرَّ مَلَكٌ

فَاَرْسِلْ حَكِيمًا وَلا تُؤْصِمَ

(اپنی ضرورت کے لئے عقل مند کو قاصد بناؤ، اس کو وصیت

کی ضرورت نہیں)۔

۷۰۸۔ لَآ دَسْوَلٌ كَالِدِهِي (روپیہ جیسا کوئی قاصد نہیں)

۷۰۹۔ اَلرَّشْفُ اَنْفَعُ -

(شہر ڈھانڈھنا زیادہ میرا ہے)

کرتا ہے) آہستگی اور وقار اختیار کرنے کی ترغیب کے لئے

کہتے ہیں۔

۷۱۰۔ رَضِيتُ مِنَ الْغَنِيِّتِ بِاَلِيَاكِ (میں واپس لوٹ آنے کی

غنیمت پر راضی ہوں) اَلِيَاكِ: واپس لوٹنا "جان بچی سو

لاکھوں پائے، خیر سے بدھو گھر کر آئے"

۱۱۔ رَضِيتُ مِنَ الْوَقَائِ بِاللَّتَاءِ۔

(میں تھوڑی سی دفا پر ہی راضی ہوں) لَفَاءٌ۔ تھیل چیز۔

۱۲۔ مَرُّ رَضِي عَنْ نَفْسِهِ كَثْرَ السَّخِطِ عَيْنِهِ۔

(جو اپنے نفس سے راضی ہو گیا اس نے اپنے پر ناراض ہونے والے

زیادہ کر لئے) اپنی کوتاہی پر نظر رہنی چاہیئے۔

۱۳۔ إِذَا تَرَضَيْتَ أَخَاكَ فَلَا أَخَا لَكَ۔ (جب تو نے

محنت سے اپنے بھائی کو راضی کیا تو گویا وہ تیرا بھائی ہی نہیں)

ترقی کی کوشش و مشقت کے ساتھ راضی کرنا۔ وہ بھائی کیا

جس کو راضی کرتے کے لئے وقتیں اٹھانی پڑیں۔

۱۴۔ رِضًا النَّاسِ غَايَةً لَا تُدْرِكُ (لوگوں کی رضا مندی ایسا

مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا) اس لئے اپنی اصلاح کرے

اور لوگوں کی طرف توجہ ہی نہ دے۔

۱۵۔ لَا تَكُنْ رَطْبًا فَتُحْصَرُ وَلَا يَأْسًا فَتُكْسَرُ۔

(نہ اتنا تر ہو جا کہ تجھے سوجھ لیں اور نہ اتنا خشک کہ تجھے توڑ دیں)

۱۶۔ مَنِ اسْتَرْجَى الدَّيْبَ ظَلَمَ۔ (جس نے بھڑیئے کو

جو دانا بنایا اس نے ظلم کیا) یعنی اس نے بکریوں پر ظلم کیا۔

۱۷۔ مَرْغَى وَلَا أَكُو لَهُ۔ (چراگاہ موجود ہے مگر

کھانے والی بکری موجود نہیں) اکُولٌ۔ وہ بکری جو کھانے کے

لئے علاوہ کر لی جاتی ہے اور جس کو خوب فرمایا جاتا ہے ایسے

مالدار کے لئے بولا جاتا ہے جس کا مال کھانے والا کوئی نہ ہو۔

۱۸۔ تَحْتَ الرَّعْوِ الْمَصْرِيحُ (جھاگ کے نیچے چالیں

دودھ موجود ہے) ایسی چیر کے لئے بلوتے ہیں جس کی حقیقت

پر رشیدہ ہونے کے بعد ظاہر ہو۔

۱۹۔ مِنَ التَّشْهِيقِ إِلَى الْعَرَشِ

(بیلچہ کے کام سے تخت کے اوپر) بیلچہ کا کام کرتا تھا۔ اب

تخت شاہی پر پہنچ گیا ہے۔ رَفْشٌ۔ بیلچہ

۲۰۔ تَرَفُّقٌ عِندَ الْمُحْفَظَاتِ الْكِنَانِ

(غیرت انگیز موقوف پر کیئے متفرق ہو جاتے ہیں) تَرَفُّقٌ

یعنی متفرق۔ مُحْفَظَاتٌ۔ غیرت کی جوش دلائے والی باتیں

کئی کئی دشمنیاں۔ اپنوں پر ظلم یا مصیبت دیکھ کر غیر

جوش میں آتی ہے اور لوگ پرانے کنبے کو بھول کر مدد

کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

۲۱۔ أَرْفَعُ مِنَ السَّمَاءِ (آسمان سے زیادہ بلند)

۲۲۔ التَّرَفُّقُ قَبْلَ الطَّرِيقِ (راستے سے پہلے ساتھی

ناموافق ساتھی سفر میں خصوصاً مصیبت کا سبب ہوتا ہے

۲۳۔ بِاللِّتَاءِ وَالْبَيْتِ

(موافقت اور بچوں کے ساتھ)۔ شادی کرنے والے کے لئے

دعا ہے۔ رِفَاءٌ بمعنی موافقت و مناسبت رَفَاتٌ الْوُكْبِ

بچے ہوئے کو رَفُو کرنا۔

۲۴۔ أَرَقُّ مِنَ السَّيِّمِ (ربو نسیم سے زیادہ لطیف)

۲۵۔ أَرَقُّ مِنَ الْعَمَاءِ۔ (رپانی سے زیادہ پتلا)

۲۶۔ أَرَقُّ مِنْ رُقْرَاقِ السَّرَابِ۔

(سراب کی چمک سے زیادہ لطیف)

۲۷۔ أَرَقُّ مِنَ الدَّمَاعِ الْعَنَامِ (ابر کے آنسوؤں سے زیادہ پتلا)

۲۸۔ أَرْقُبُ الْبَيْتِ، مِيتَ الْمَرَاتِقِ۔

(گھر کی حفاظت اس کے محافظ سے جی کر کسی نے گھر کی

حفاظت کے لئے اپنے غلام کو چھوڑ دیا۔ غلام سامان بیکر

چلتا بناتا اس نے یہ جملہ کہا تھا۔

۲۹۔ كَالَّذِي قَامَ عَلَى الْعَمَاءِ

(رپانی پر کھننے والے کی طرح بے وقار اور ناسزا دہ)

۳۰۔ رَزَقٌ عَلَى ظُلْمٍ (اپنے گھر سے بچ کا خیال رکھ

کر چودھو) فُلَعٌ الْبُيُوتِ۔ (دنٹ نے فکرو اسٹی کی وجہ

سے چال میں نرمی اور آسٹنگی اختیار کی۔ رَزَقٌ عَلَى ظُلْمٍ

کی اصل یہ ہے کہ علی قدر ظُلْمِکَ یعنی اپنی حد سے تجاوز نہ

نکر اور اپنی عاجزی و مجبوری پیش نظر رکھ۔

۳۱۔ رَكِبَ حَتَّاجِي النَّعَامَةِ (وہ شرمُرخ کے بازوؤں پر

سوار ہو گیا) تیز رفتاری کی تشبیہ ”پر گائے“

۳۲۔ يَذْكِبُ الصَّعْبَ مَنْ لَا ذَلَّ لَوْ كُنْ لَهُ

(سرکش پر وہ سوار ہو جس کے پاس سدھایا ہوا نہ ہوا آسانی

سے مقصد حاصل ہو تو سخت رویہ کیوں اختیار کرے۔

۳۳۔ مَنْ لَمْ يَذْكِبْ الْأَهْوَالَ لَمْ يَنْبَلِ الْأَمَالَ

(جو بھولناک اشیاء پر سوار نہ ہو گا وہ امید میں حاصل

جس کو لوٹنا تاجر پر مشکل ہو۔

۴۴۔ قَبْلَ الرَّحَى يَوْمَ اشْرِ السَّهْمِ۔

(تیر چھیننے سے پہلے اس کو پر لگایا جاتا ہے۔ پُر اش یعنی تیر کے پر لگائے گئے انھیں معنی میں کہا جاتا ہے قَبْلَ الرَّحَى ۴۵۔ تُمَلَّاؤُا لِّكُنَّا مَيْتٌ۔ (تیر اندازی سے پہلے ترکش

بھر لئے جاتے ہیں۔

۴۶۔ مَا كَلَّ رَايَ غَدَمٍ يُصِيبُ۔

(ہر نشانہ باز نشانہ پر نہیں مار سکتا، غرض ر بہت) وہ چیز جس کو نشانہ بنایا جائے۔

۴۷۔ قَبْلَ الزَّمَامِ تُمَلَّاؤُا لِّكُنَّا مَيْتٌ۔

(تیر اندازی سے پہلے ہی ترکش بھرا جاتا ہے) رَا مَ۔ رَا مَ کا مصدر ہے۔ باب مفاعلة کُنَّا مَ تیر رکھنے کے تھیلے یعنی کام کرنے سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے۔

۴۸۔ رُبَّ رَمِيَّةٍ مِثَّ عَيْدٍ رَامِنٍ۔

(کبھی تیر اندازی وہ بھی کر لیتا ہے جو تیر اندازی نہیں جانتا)۔ یعنی کبھی انارٹی کا تیر بھی نشانہ پر لگ جاتا ہے۔ اسی کے معنی مثل گذر چکی ہے۔ مَعَ الْخَوَاطِي سَهْمٌ صَائِبٌ۔

۴۹۔ عِنْدَ الْهَكَانِ تَعْرِفُ السُّوَابِقِ۔ (گھوڑوں کے دقت

آگے نکلنے والے گھوڑے سچانے جلتے ہیں) یعنی آزمائش شرط ہے اور ایسے موقع پر بھی کہا جاتا ہے جب لمبی چیز کا دھڑکیا گیا جائے جس کے کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔

۵۰۔ اسْتَدْرَأَ مَنْ لَا عَقْلَ لَهَا (جس کو عقل نہیں اس نے

راحت پائی، غم اور تنگ عقل کے ساتھ ہیں۔

۵۱۔ السَّارِيسُ لَا يَكْنُبُ أَهْلَهُ۔

(پیش رو جاسوس اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں کہتا) رَا مَ، وہ شخص جو قافلے سے آگے گھاس دہانی کی تلاش کے لئے جاتا ہے اگر وہ جھوٹ بولے گا تو لوگوں کے ساتھ خود بھی ہلاک ہو جائے گا۔

۵۲۔ أَرَوْعُ مِنْ ثُعَالِبَةٍ۔

(رومٹی سے زیادہ چال باز)

۵۳۔ أَرَوْعُ مِنْ ثُعَالِبٍ۔ (رومٹی سے زیادہ مکار)

نہ کر سکے گا) مصیبت کے بغیر راحت نہیں ملتی۔

۴۴۔ كَوَارِكِبِ اثْنَيْنِ۔ (دو سواروں کا سوار) جو شخص دو

کاموں میں مترقّد ہو۔

۴۵۔ رَفَى الْكَلَامَ عَلَى عَوَاهِيهِ۔ (اس نے کلام کو کھجور

کی ٹہنیوں پر دوے مارا) عَوَاهِي جع عَاهِيَة یعنی کھجور کی وہ شاخیں جو خشک ہو چکی ہوں۔ مراد یہ ہے کہ بے پروائی اور بے ڈھنگی سے بات کی۔

۴۶۔ رَمَاهُ اللَّهُ يَكْنِبُ لَا أُخْتِ لَهَا (اللہ تعالیٰ اس پر ایسی

رات لائے جس کی بہن کوئی دوسری رات نہ ہو) بدعا ہے یعنی دوسری رات سے پہلے موت آجائے۔

۴۷۔ رَمَاهُ اللَّهُ مِنْ كَلِّ الْكَمَةِ يَجْعَلُ (اللہ تعالیٰ اس کو ہر

ٹیلے سے پتھر مارے) چاروں طرف سے پتھر برسیں)

۴۸۔ رَمَاهُ بِأَحْقَافٍ سَامِيَةٍ (اس کے سر کی کھوپڑی

پر مارا) تَحْفٌ: دماغ کے اوپر کی بڑی کا نام ہے کھوپڑی کھوپڑی ٹوڑ، یعنی ہلاکت یا قریب بہ ہلاکت۔ احقاف: لفظ جمع لانے کا مقصد مبالغہ ہے یعنی پے درپے۔ رَمَاهُ بِتَحْفٍ رَأْسَهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ۔

۴۹۔ رَمَاهُ اللَّهُ ثَلَاثَةَ الْآثَانِي۔

(اللہ تعالیٰ اس کو چوتھے کے میرے پتھر کے ساتھ مارے) اثانی: پہاڑی کا کمر یا چوٹے کے تین پتھر۔ مراد یہ ہے کہ چوٹے کا تیسرا پتھر بھی مار دیا اور معاملہ انتہا کو پہنچ گیا۔

۵۰۔ رَمَاهُ اللَّهُ يَدَ السَّيِّئِ۔ (اللہ تعالیٰ اس کو بھڑیے

کے مرض میں مبتلا کرے) بھڑیے کا مرض بھوک ہے خدا کے اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔

۵۱۔ رَمَاهُ بِذَيْلِهِ الْقَصَائِبِ۔ (اس کو اپنے نشانے پر لگنے

والے تیر سے مارا) مسکت اور منہ توڑ جواب دیا۔

۵۲۔ رَمَيْتُنِي يَدُ إِثْمَاءَ وَاسْتَلَّتْ۔

(انچی بیماری میری طرف منسوب کر دی اور کھسک گئی) اچا عیب دوسرے کو لگایا۔ رَمَاهُ بِالزَّادِ: کسی بیماری کا عیب لگانا۔ اسْتَلَّتْ: چپکے سے کھسک جانا۔

۵۳۔ لَا تَرْمِ سَهْمًا لَيْسَ رُ عَلَيْكَ رَدَّةً (وہ تیر مت پھینک

۴۵۳۔ اَرُوْغَا نَا يَا مُعَالٍ وَقَدْ عَلَّقَتْ بِالْجَبَالِ -

ایک ارب بھی حیلہ بازی کرے گی اسے لڑی جب کہ تو حال میں
پھنس چکی ہے، اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس پر حق
واجب ہو چکا ہو مگر پھر بھی وہ حیلہ بازی کرے۔

۴۵۴۔ اَرُوْی مِنْ حَیَّةٍ

(سانپ سے زیادہ سیراب) سانپ کو پانی کی طلب نہیں ہوتی
۴۵۵۔ اَرُوْی مِنْ حَیَّةٍ - (گرم سے زیادہ سیراب)
گروہ بالکل پانی نہیں پیتی۔ ہوا کی نمی سے پیاس بجھالیتی ہے
کسی نامکمل چیز کے بارے میں کہتے ہیں حَتَّى یُرُوْا الْعَرَبَ -
(یہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ گروہ پانی پیئے)۔

۴۵۶۔ اَلْزَاوِیْمَةُ اَحَدُ الشَّائِمِیْنِ -

(مقل کرنے والی دو گالی دینے والوں میں سے ایک ہے) اسی
طرح یہ قول ہے سَبَّكَ مَنْ بَلَغَكَ (جس نے تجھ کو پہنچائی
اسی نے تجھ کو گالی دی ہے)۔

۴۵۷۔ رَبِّ رِیْثٍ یُّعَقَّبُ حَوْتًا

(بسا اوقات دیر کرتا قوت ہونے کا نتیجہ دیتا ہے) یعنی تاخیر
ناکامی کا سبب ہوتی ہے رِیْثٌ - دیر کرنا۔

۴۵۸۔ اِنْ کُنْتَ رِیْثًا فَتَدْرُکْ اَعْصَارًا (اگر تو ہوا تھا تو
گبرے سے مل گیا، اَعْصَارٌ - گرد باد، بگولا۔ سیر کو سوا سیر
مل گیا۔

۴۵۹۔ اِنْ اَرَدْتَ الْمَحَا جَزَاةً فَتَقَبَّلِ الْمَنَاجِزَةَ

(اگر آڑ لینا چاہتا ہے تو لڑائی یا فنا ہونے سے پہلے) مَحَا جَزَاةً
مانعت یہ کہ ہر شخص اپنے مقابل سے رکنے اور بچنے کی
کوشش کرے۔ مَنَاجِزَةُ، لڑائی۔ کُجْرٌ، بمعنی فنا سے
ماخوذ ہے۔ لڑائی میں ہر حریف دوسرے کو فنا کرنے کی کوشش
کرتا ہے۔ مثال کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی سے بچنا چاہو
تو بھڑ بھڑ ہونے سے بچو اور لڑائی کے بعد صلح طلب
کرنے والے کے لئے بھی کہتے ہیں۔

۴۶۰۔ اُرِیْدُ حَبَاةً وَّیُورِیْدُ قَشَلِی -

(میں اس کو عطیہ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں) اور وہ میرے
قتل کا ارادہ کرتا ہے، حَبَاةٌ، عطا و بخشش۔

۴۶۱۔ اِذَا ارَادَ اللّٰهُ هَلَاکَ شَیْءٍ اَنْبَتَ لَهَا

جَنَاتٍ حَیْنٍ (جب چھوٹی کی موت آتی ہے تو اس کے
پر نکل آتے ہیں)۔

۴۶۲۔ مَنْ کَمُ یُرِیْدُکَ فَلَا تَرُدُّهُ

(جو شخص تیرا ارادہ نہ کرے تو اس کا ارادہ نہ کر)

۴۶۳۔ کَمَ بَیْنُ مُرِیْدٍ وَ مُرَادٍ

(ارادہ اور مراد میں بڑا فاصلہ ہے) بسا اوقات ارادہ
کرنے والا مراد سے محروم رہ جاتا ہے۔

ز

۴۶۴۔ حَبَلُ الزُّجَرِ وَثَدٌ اَمَّ السَّیَّکَاتِ -

(اس نے رُجَحَ کرائی کے سامنے لگایا۔ حالانکہ اس کی جگہ
انی کے پیچھے ہے۔ رُجَحَ: وہ میخ جو نیزے کے نیچے والے
حصے میں لگائی جاتی ہے سَنَانٌ - نیزے کا سرا (آنی)
اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو ادنیٰ کو اعلیٰ پر فوقیت
دے دے۔

۴۶۵۔ اِنْ کَمُ تَزَا حِمٌ لَمْ یَقْعَ فِی الْخُرُجِ شَیْءٌ

(اگر تو مزاحمت نہ کرتا تو خرچین میں کوئی چیز نہ پڑتی)۔

۴۶۶۔ مَنْ یَزِدُّ عَ الشُّوْکَ لَا یَحْصُدُ بِهِ (لَعَنَّا

رجو کانے بڑے گا اس سے) انکو نہیں کاٹے گا، انکو
توڑنے کے لئے قَطَفَ الْعِیْنِ بولتے ہیں حَصَدَ:
نہیں بولتے۔

۴۶۷۔ کَمَا تَزِدُّعُ تَحْصُدُ -

(جیسا بڑے گا ویسا کاٹے گا)

۴۶۸۔ هُوَ اَرَزَقُ الْعَیْنِ -

(وہ نیلگوں آنکھوں والا ہے) دشمن کے لئے کہا جاتا ہے
اور اسی مقصد کے لئے هُوَ اَسْوَدُ الْکَبِدِ (وہ سیاہ
جگر ہے)۔ هُمُ صُفْهِی السَّبَابِ (وہ سرخ
مونچھوں والے ہیں) بھی بولا جاتا ہے جیسے کبھی آنکھوں
والا۔ سیاہ قلب وغیرہ۔

۴۶۹۔ لِكُلِّ زَعَمٍ خَصْمٌ - (ہر گمان کے لئے کوئی مقابل)۔

ہے ایسا دعویٰ کرتا ہے جس کو چیلنج کہا جاسکتا ہے

۷۷۰۔ رَزَقَهُ ذِقَّ الْحَمَامَةِ فَرَحَهَا۔

(اس کو چکا دیا جیسے کبوتری اپنے بچے کو چکا دیتی ہے) کسی کو

کو تاہی کے بغیر محبت و شفقت سے پرورش کی۔

۷۷۱۔ إِذَا أَدْرَأَ الْعَالِمُ زَلَّ بِذَلَّتِهِ عَالَمٌ۔

(جب عالم پھسل جائے تو اس کے پھسلنے کی وجہ سے ایک جہان

پھسل جاتا ہے۔)

۷۷۲۔ وَذَلِكَ الرَّأْيُ تُسَبِّحُ ذَلَّةَ الْقَدَمِ۔

(رائے کا پھسلنا قدم کے پھسلنے کو بھلا دیتا ہے) رائے کی

نغزش ٹھوکر لگنے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔

۷۷۳۔ يَكُلُّ زَمَانُ رِجَالٍ (ہر زمانہ کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں)

۷۷۴۔ هُنَا زَنَدَانٌ فِي دَعَايِهِ۔ (وہ دونوں ایک ہی برتن میں آگ

سلگانے والے ہیں) ایک تھیل کے چٹے بٹے۔

۷۷۵۔ أَرْهَى مِنْ غَرَابٍ (کوئے سے زیادہ متکبر)

۷۷۶۔ أَرْهَى مِنْ وَعَلٍ (پھاڑی بکرے سے زیادہ متکبر)

۷۷۷۔ أَرْهَى مِنْ طَاوُسٍ (طاووس سے زیادہ متکبر) اتراتا ہے)

۷۷۸۔ زُرْعًا تَزْدُ حَبًّا۔

(ایک دن چھوڑ کر زیارت کرنا کہ محبت زیادہ ہو) روز کا آنا جانا

قدر کھودیتا ہے۔ غیث۔ ایک ن کام کرنا اور ایک ن چھوڑ دینا۔

۷۷۹۔ الرِّبِّيُّ فِي الْعَجَبِ لَا يُضَيِّعُ۔

(روغن آٹے میں ضائع نہیں ہوتا) گھی کہاں گیا کھچڑی میں۔

رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے والے کے لیے بوسنے میں۔

۷۸۰۔ زَادَ فِي الطَّنْبُورِ نَعْمَةً۔

(اس نے طنبور میں ایک نغمے کا اضافہ کر دیا)

۷۸۱۔ زَيْنٌ فِي عَيْنٍ وَإِلْدٌ وَكْدٌ۔

(باپ کی نظر میں بیٹا خوب صورت ہوتا ہے۔)

(۶۰)
س

۷۸۲۔ إِنْ سَأَلَ الْخَفَّ وَارِنْ سُئِلَ سَوَفَ۔

(اگر وہ سوال کرتا ہے تو لپٹ جاتا ہے اور اگر اس سے سوال

کیا جاتا ہے تو مل دیتا ہے۔

۷۸۳۔ تَسْأَلُنِي أُمُّ الْيَتَامَى رَجُلًا يَسْتَنْبِي رُوَيْدًا أَوْ يَكُونُ أَوَّلًا

(ام خیار مجھ سے ایسا اونٹ مانگتی ہے جو آہستہ چلے اور

اول آئے) دشوار چیز مانگتی ہے۔

۷۸۴۔ سَأَلَ اللَّهُ لَا يَخْذِبُ (خدا سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا)

۷۸۵۔ سَبَّكَ مَنْ بَلَغَكَ السَّبَبُ۔

(اسی نے تھیں گالی دی جس نے تمہارے پاس گالی پہنچائی)

۷۸۶۔ سُبْنِي وَاصْصِدْ (مجھے گالی دو مگر سچ کہو)

۷۸۷۔ مَالُهُ سَبْدٌ وَلَا كَبْدٌ (نہ اس کے بال ہیں نہ اون)

سَبْدٌ (بال) لَبْدٌ (داون) یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔

۷۸۸۔ سَبَقَ سَيْلُهُ مَطَرَهُ۔ (اس کا سیلاب اس کی بارش

سے بھی پہلے آگیا) نفع سے پہلے نقصان ہو گیا۔

۷۸۹۔ سَبَقَ السَّبَبُ الْعَذْلَ۔

(تواریط سے سبقت لے گئی) ضیہ ابن اڈنے اپنے لڑکے کے

قاتل کو حرم میں قتل کر دیا۔ لوگوں نے طاعت کی تو اس نے یہ جملہ کہا۔

۷۹۰۔ سَبَقَتْ ذَرَّتُهُ غَيْرَاسُ كُـ

(اس کے زیادہ دودھ سے کم دودھ سابق ہو گیا) ذرۃ۔ دودھ

کی کثرت۔ غراس۔ دودھ کی قلت۔ شترخیر سے پہلے آگیا۔

اور احسان سے پہلے ہی بدی کی۔

۷۹۱۔ مَنْ سَابَقَ الدَّاهِرَ عَشَوُ۔

(جو زمانہ سے آگے بڑھے گا وہ پھسل پڑے گا)

۷۹۲۔ مَا اسْتَتَرْتُ مَنْ قَادَ الْجَمَلَ۔

(جو اونٹ کو کھینچ کر لے جائیگا، وہ چھپا نہیں رہے گا۔)

۷۹۳۔ سَخَابَةُ مَمِيَّتٍ عَنْ قَلِيلٍ تَنْقَشُ۔

(گرمی کی بدل جلد ہی چھٹ جاتی ہے) بھادول کی بارش زیادہ دیر نہیں

طھرتی تقش دراصل تقش ہے بمعنی منکشف ہونا۔ چھڑ جانا۔

۷۹۴۔ لَمَّا اسْتَدَّ سَاعِدَا رَمَانِي۔

(جب اس کی کلائی درست ہو گئی تو اس نے مجھے ہی تیر مارا) پورا شعر یہ

أَعْلَمُهُ الرَّمَايَةُ كُلُّ يَوْمٍ: فَلَمَّا اسْتَدَّ سَاعِدَا رَمَانِي

(میں اس کو ہر روز تیر اندازی سکھاتا تھا۔ مگر جب اس کی کلائی

درست ہو گئی تو اس نے میرے ہی تیر مارا)

۷۹۵۔ السِّرُّ أَمَانَةٌ (راز ایک امانت ہے)

۷۹۶۔ سِرُّكَ مِنْ دَمَلِكْ (تیرا راز تیرے خون سے ہے)

بسا اوقات افشائے راز موت کا سبب بن جاتا ہے۔

۷۹۷۔ مَالَهُ سَارِحَةٌ وَلَا رَارِحَةٌ

اس کے پاس نہ چرنے والے جانور ہیں نہ چر کر واپس آنیوالے

اس کے پاس کوئی چیز نہیں۔ سارحہ۔ چرنے والے۔ رارحتہ۔

چرنے کے بعد شام کو واپس آنے والے جانور۔

۷۹۸۔ اسْرَعُ مِنَ الْبَرْقِ (بجلی سے زیادہ تیز رفتار)

۷۹۹۔ اسْرَعُ مِنَ الْبَيْنِ (جدائی سے زیادہ تیز رفتار)

۸۰۰۔ اسْرَعُ مِنَ الطَّرْفِ (نگاہ سے زیادہ تیز رفتار)

۸۰۱۔ اسْرَعُ مِنَ اللَّحْمِ (نظر سے زیادہ تیز رفتار)

۸۰۲۔ اسْرَعُ مِنْ كُحْلِ الْبَصَرِ (آنکھ جھپکنے سے زیادہ تیز رفتار)

۸۰۳۔ اسْرَعُ مِنْ رَجْعِ الصَّدَى (آواز بازگشت سے زیادہ

تیز رفتار)

۸۰۴۔ اسْرَعُ مِنَ الْبَيْدِ إِلَى الْعَجْرِ (منہ کی طرف لمحہ سے زیادہ تیز رفتار)

۸۰۵۔ يَسْرُقُ مِنَ الْكُلِّ مِنَ الْعَيْنِ (آنکھ سے سرمہ چرا لیتا ہے)

۸۰۶۔ اسْرَى مِنَ الْحَيَالِ (خیال سے زیادہ چلنے والا)

۸۰۷۔ السَّعِيدُ مَنْ كَفَى

(نیک بخت وہ ہے جس کو استغناء حاصل ہو گیا)

۸۰۸۔ بِالسَّاعِدِ يَبْطِشُ الْكَفَّ

(کھائی کے ذریعہ ہی ہاتھ مضبوط پکڑتا ہے یعنی کامیابی کے لیے

قوت و قدرت ضروری ہے، جو میرے پاس نہیں اور مددگاروں کی

کمی کے موقع پر بھی مثال دیتی ہے۔ اسی طرح کا ایک شعر ہے۔

أُولَئِكَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَأَيْتَهُمْ

وَمَا الْكَفَّ إِلَّا صَبْعٌ شَحْرًا صَبْعٌ

(میرے بھائی میں جن کو تو نے دیکھ لیا، اور ہاتھ انگلی در انگلی

کے علاوہ نہیں، ایک ایک انگلی سے ہی پورا ہاتھ بنتا ہے۔

۸۰۹۔ مَالَهُ سَعْنَةٌ وَلَا مَعْنَةٌ

(نہ اس کے پاس بھڑکا ہوا کھانا ہے نہ زیادہ) سَعْنَةٌ۔ کھانے کی کثرت

مَعْنَةٌ۔ کھانے کی قلت۔ اس کے پاس بھڑکیا بہت کچھ بھی نہیں۔

۸۱۰۔ مَنْ سَعَى رَعَى

(جو دوڑا، وہ چر گیا) جس نے کوشش کی اس نے پایا۔

۸۱۱۔ رَبِّ سَاغِرٍ لِقَاعٍ

(بعض آدمی سیٹھے ہوئے کے لیے دوڑتے ہیں) یہ نابغہ ذیباٹی کا قول

ہے۔ نعمان بن منذر کے دربار میں ایک عربی وفد کے ارکان میں

بنی عبس کا ایک شخص شقیق بھی شامل تھا جو فوت ہو گیا۔ جب

نعمان نے وفد کو عطیات دیے تو شقیق کے ورثاء کو بھی عطیہ بھیجا

تو اس وقت نابغہ نے کہا کہ رَبِّ سَاغِرٍ لِقَاعٍ

۸۱۲۔ يَسْتَفْتِ التُّرَابَ وَلَا يَخْضَعُ لِأَحَدٍ عَلَى بَابٍ

(خاک پھاںکتا ہے مگر کسی کے دروازے پر نہیں جھکتا)

خود دار کے لیے بولا جاتا ہے۔

۸۱۳۔ سَفِينُهُ لَمْ يَجِدْ مُسَافِرًا

سبک سربزوف ہے کسی گالی دینے والے سے واسطہ نہیں پڑا)

۸۱۴۔ حَبِثْنَا سَقَطَ لَقَطٌ

(جہاں کہیں جا پڑا وہیں سے کچھ اٹھالیا) حیلہ ساز اور چالاک شخص کے

لیے ہوتے ہیں جہاں دیکھا تو پرات وہیں گنار دی ساری رات

۸۱۵۔ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَوْ قَطَّةٌ

(ہر گرنے والی چیز کو کوئی اٹھانے والی مل جاتی ہے) یعنی ہر نکلنے

والی بات کو اٹھانے والا کوئی کان ہوتا ہے گفتگو میں احتیاط

کے لیے بولا جاتا ہے۔

۸۱۶۔ يَسْتَقْنِي مِنْ كُلِّ يَدٍ بَكَايَسٌ

(ہر ہاتھ سے ایک پیالہ پی لیتا ہے) متکون مزاج کے لیے ہوتے ہیں۔

۸۱۷۔ سَاقِيَةٌ لَا تُعْلَمُ مَحْوًا (چھوٹی نہر سمندر کو گدلا نہیں کرتی)

۸۱۸۔ سَكَّتِ الْفَاوْطُ خَلْفًا

(ہزار لمحہ خاموش رہا، بولا تو غلط بولا) خَلْفٌ۔ ردی قول وغیرہ

الْفَاوْطُ کو مفعول مطلب کی بنا پر منصوب ہے۔ یعنی سَكَّتِ الْفَاوْطُ

سَكَّتَتْ وَثَقَتْ تَكَلَّمَ بِخَطِّ (ہزار خاموشی کے بعد بھی

غلط بولا)

۸۱۹۔ السُّكُوتُ أَخُو الرِّضَا (خاموشی رضامندی کی طرح ہے)

۸۲۰۔ رَبِّ سَكُوتٍ أَبْلَغُ مِنْ كَلَامٍ

(بہت سی خاموشیاں کلام سے زیادہ بلیغ ہوتی ہیں)

۸۲۱۔ رَبِّمَا كَانَ السُّكُوتُ جَوَابًا

(پرنڈے سے زیادہ سخی) جو اپنے پیٹ کا کھانا بھی بچوں کو
چکا دیتا ہے۔ لاقطۃ پرنڈہ کو کہتے ہیں۔

۸۳۵۔ لَقَدْ أَسْمَعْتُ لَوْ كُنَّا دَيِّتَ حَيًّا۔

(اگر تو کسی زندہ کو پکارتا تو اس کو سنا دیتا) اس وقت کہا
جاتا ہے جب نصیحت بے اثر رہے۔

۸۳۶۔ أَسْمَعُ جَعَجَةً وَلَا أَرَى طَحْنًا۔

(جھکی کی گڑگڑاہٹ تو سننا ہوں مگر گڑا دکھائی نہیں دیتا، بزدل
اور بخیل کا شور تو سنائی دیتا ہے۔ مگر عمل نظر نہیں آتا۔

۸۳۷۔ اَنْ تَسْمَعَ بِالْمُعِيْدِي خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَرَاكَ۔

(تیرا معیدی کو سننا اس کو دیکھنے سے بہتر ہے) منذر ابن
ماء السمان نے کہا تھا، جو مشقہ بن حمزہ المعیدی کے متعلق اچھی
خبریں سن کر خوش فہمی رکھتا تھا، دیکھا تو وہ انتہائی بد صورت
نکلا۔ اس کا یہ قول ضرب المثل بن گیا۔

۸۳۸۔ اِذَا لَمْ تُسْمِعْ فَاَلَيْسَ لَكَ تَوْشَاهُ هِيَ كَرْمِي

۸۳۹۔ اِسْمَعُ وَلَا تُصَدِّقِي۔ (سن لے، خواہ تصدیق نہ کرے)

۸۴۰۔ سَاِمَعَادُ عَوْتَ۔ تو نے سننے والے کو پکارا ہے۔

۸۴۱۔ بَيْنَ سَمْعِ الْاَرْضِ وَبَصَرِهَا۔

(زمین کے کان اور آنکھ کے درمیان) یعنی چپ چپاتے۔

۸۴۲۔ اَسْمَعُ مِنْ قُرْآنٍ۔ (چوچڑی سے زیادہ سننے والا) کہتے

ہیں کہ چوچڑی ایک دن کی مسافت کی راہ سے اونٹ کے پاؤں
کی آواز سن کر اس طرف حرکت شروع کر دیتی ہے۔

۸۴۳۔ قَدْ اسْتَسْمَعْتَ ذَاوَرَمَ۔

(تو نے دم والے کو ٹوٹا سمجھ لیا ہے) ظاہر سے فریب کھایا ہے۔

۸۴۴۔ سَمِعْتُكُمْ هُوَيْتٌ فِي اَدِيمُكُمْ۔

(تمہارا گھی تمہاری کھال میں ہی انٹریل دیا گیا ہے) تمہارا مال

تم ہی پر خرچ ہوا۔

۸۴۵۔ اسْمَنُ مِنْ يَغْرِ۔

(یغیر سے زیادہ فریب، یغیر ایک فریب جانور ہے۔

۸۴۶۔ مَنْ لِيْ بِالسَّانِيَةِ بَعْدَ الْبَارِحَةِ۔

(کوئی میرے لیے بارک ہوگا، منجوس کے بعد) سانحہ۔ داہنی

طرف سے آنے والا شخص۔ اور بارح۔ بائیں طرف سے آنے والا۔

(ایسا اوقات خاموشی ہی جواب ہوتی ہے۔

۸۴۲۔ سَلَحُ الْحَبَّارِي سِلَاحُهُ۔

(جباری) سرخاب کا بیٹ کرنا ہی اس کا ہتھیار ہے) یہ پرنڈہ

حملہ آور سے بیٹ کر کے ہی بچتا ہے۔

۸۴۳۔ سِلَاحُ الضَّعْفَاءِ الشَّكَايَةُ۔

(کمزور دل کا ہتھیار شکایت ہی ہے)

۸۴۴۔ اَسْلَحُ مِنَ الْحَبَّارِي (سرخاب سے زیادہ بیٹ کرتے والا،

۸۴۵۔ السُّلْطَانُ ظَلَّ اللهُ فِي اَرْضِهِ۔

(بادشاہ خدا کی سرزمین پر خدا کا سایہ ہے) غلو کو اس سایہ

میں پناہ ملنی چاہیے۔

۸۴۶۔ لَا سُلْطَانَ بِلَا رِجَالٍ (بغیر آدمیوں کے کوئی بادشاہ نہیں بنتا،

۸۴۷۔ لَيْسَ لِسُلْطَانٍ اَعْلَمُ زَوَالٍ۔ (سلطان علم کو زوال نہیں،

۸۴۸۔ مَنْ سَلَكَ الْجَدَدَ آمِنَ الْعَثَارِ۔

(جو شخص ہموار زمین پر چلے گا وہ پھسلنے سے محفوظ رہے گا۔

جَدَدٌ۔ ہموار زمین۔

۸۴۹۔ اِنْ سَلِمْتَ مِنَ الْاَسَدِ فَلَا تَطْمَعُ فِي صَيْدِهِ۔

(اگر تو شیر سے بچ جائے تو اس کے شکار کا لالچ نہ کر،

۸۵۰۔ مَنْ سَلِمَتْ سِرِّيَّتُهُ سَلِمَتْ عَلَانِيَتُهُ۔

(جس کی باطنی خصلت دست ہوگی، اس کا ظاہر بھی سالم ہوگا۔

۸۵۱۔ اِنْ تَسْلَمِ الْجَلَّةُ فَالتَّيْبُ هَدَرٌ۔

(اگر بڑے اونٹ بچ جائیں تو بڑھی اونٹنیاں رائگاں ہیں)

جلۃ جلیل کی جمع معنی بڑے اونٹ۔ تائب ناب کی جمع معنی

معرسیدہ۔ مطلب یہ کہ جب قیمتی چیز بچ جائے تو بے قیمت

چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔

۸۵۲۔ السَّلَامَةُ غَنِيْمَةٌ۔ (سلامتی ایک غنیمت ہے)

۸۵۳۔ اِنَّ السَّلَامَةَ مِنْهَا تَرُكُ مَا فِيْهَا۔

(اس کی سلامتی یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے)

مِنْهَا اور فِيْهَا کی ضمیریں دنیا کی طرف راجع ہیں شعور کا پہلا

مصرعہ یہ ہے۔ وَالنَّفْسُ تَكْلَفُ بِالْدُّنْيَا وَقَدْ عَمِلَتْ

(نفس دنیا کا عاشق ہے،

۸۵۴۔ اَسْمَعُ مِنْ لَاقِطَةٍ۔

اہل عرب سانحہ سے نیک فالی اور بارحہ سے بد فالی لیتے تھے
نخواست کے بعد برکت کی توقع، یا بہتر حالات سے باہوسی
کے موقع پر کہا جاتا ہے۔

۸۴۷۔ کَانَ سَتَدًا تَا فَصَّاسَ مَطْرَقَةً۔

ادہ اہرن تھا، پھر ہتھوڑا بن گیا، سندان کی طرح ذلیل تھا،
جس پر ہر وقت ہتھوڑا بختا رہتا ہے،

۸۴۸۔ اِذَا كُنْتَ سَتَدًا اَنَا فَاصِيْرٌ وَاِذَا كُنْتَ مَطْرَقَةً اَنَا وَجَعٌ۔

(اگر تو اہرن ہے تو میرا اور اگر ہتھوڑا ہے تو درد پہنچا)

۸۴۹۔ اَسْهَرُ مِنْ النَّجْمِ۔ (ستارے سے زیادہ جلگئے والا)

۸۵۰۔ اَسْهَرُ مِنْ قُطُوبٍ۔ (قطب منجم سے زیادہ جلگئے والا)

قطب حشرات الارض میں ایک کیڑا ہے جو رات بھر نہیں سوتا۔

۸۵۱۔ سَهْمُكَ وَسَهْمُ عَلِيٍّ۔

(ایک حصہ تیرے موافق اور ایک تیرے مخالف)

۸۵۲۔ اَسَاءَ سَمْعًا فَاسَاءَ اِجَابَةً۔

(اس نے غلط سنا تو غلط ہی جواب دیا)

۸۵۳۔ اَسَاءَ كَارَةً مَا عَمِلَ۔ (مجبور شخص نے برا کام کیا)

۸۵۴۔ اَسَاءَ رَعِيًّا فَسَقَى۔

اس نے بری طرح چرایا اور پھر پانی بھی پلا دیا، اس نے کم

چرنے کے بعد خالی پیٹ پانی پلا دیا۔ کام اچھا نہ کیا۔ اور

اصلاح کی کوشش سے مزید فساد پھیلا دیا۔

۸۵۵۔ سُوُّ الظَّنِّ مِنْ شِدَّةِ الصَّغْرِ۔

(بدگمانی انتہائی درستی کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی کے ہم معنی

ہے۔ رَأَتْ الشَّيْفِيقَ بِسُوِّ ظَلَمٍ مُؤَلَّغٍ۔ (مہربان

بدگمانی کا حریف ہے)

۸۵۶۔ سَبَدُ الْقَوْمِ اَشْفَاهُمُ۔

(قوم کا سردار سب سے زیادہ بد بخت ہوتا ہے، جو ہر ایک

کی ڈھال بن کر تمام سختیاں اپنے سر سہ لیتا ہے۔

۸۵۷۔ مَا كُلُّ سُودًا اَعْتَمَرَةً۔

دہر سیاہ چیز کھجور نہیں ہوتی، تمت کے موقع پر بولا جاتا ہے

اسی طرح مثل ہے۔ "مَا كُلُّ بَيْضَاءٍ شَحْمَةٌ"۔

۸۵۸۔ كُوْذَاتٌ يَسُوْرُ لَطْمَتِيْ۔

(کاش کہ کوئی کنگن والی عورت مجھے طمانچہ مارتی)۔

حاتم طائی نے ایک قیدی کے ذہب میں بنی عنفرہ کے پاس

خود کو رہن رکھ دیا۔ ایک لونڈی نے اس کے طمانچہ مارا۔

اس وقت حاتم نے کہا۔ کاش! کوئی کنگن والی عورت

(آزاد عورت) میرے طمانچہ مارتی۔ کینز میں زیور نہیں پہنتی

حقائق۔ بہتر صورت حالات کے مقابلہ میں گھٹیا صورت

اختیار کرنے پر یا کم تر شخص کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے

موقع پر بولا جاتا ہے۔

۸۵۹۔ مَنْ سَاوَاكَ بِنَفْسِهِ مَا ظَلَمَكَ۔

(جس نے تجھ کو اپنے نفس کے برابر رکھا اس نے تجھ پر

ظلم نہیں کیا)

۸۶۰۔ مَسَاوَاكَ عَبْدٌ غَيْرُكَ۔

(تیرے غیر کا غلام تیرے برابر ہے، کیونکہ وہ تمہاری حکم برداری

سے آزاد ہے۔ اسی مفہوم کو عوام عَبْدٌ غَيْرُكَ حُرٌّ

مِثْلُكَ کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔

۸۶۱۔ اِنْ اَسْتَوَيْ قَسِيْرَيْنِ وَاِنْ اَعُوْبَجَ فَمِنْجَلٍ۔

(وہ اگر سیدھا ہو تو چھری ہے، ٹیڑھا ہو جائے تو درانتی ہے)

۸۶۲۔ سِرٌّ وَقَمَرٌ لَّكَ۔

(چلا جا اور چاند تیرے واسطے ہے، بات میں چلنے کے لیے

چاند کی روشنی کو غنیمت سمجھ۔

۸۶۳۔ سَيْرَةُ الْمَرْءِ تُنَبِّئُ عَنْ سَرَائِرِهِ۔

(آدمی کی عادت اس کی باطنی شرافت کی خبر دیتی ہے)

۸۶۴۔ سَيْرَيْنِ فِيْ خُرُوزَةٍ۔

(دو تسمے ایک سوراخ میں) یعنی اِجْمَعُ سَيْرَيْنِ فِيْ خُرُوزَةٍ

"ایک پنچہ دو کاج"

۸۶۵۔ سَالِ يَهْمُ السَّبِيلِ وَجَاشْ بِنَاءَ الْبَحْرِ۔

(ان کو سیلاب نے بہا دیا اور ہم پر سمندر چڑھ آیا) یعنی ہم

ان سے بھی زیادہ شدید مصیبت میں پڑ گئے۔

۸۶۶۔ سَبِيلٌ بِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي۔

(اس کو بہا دیا گیا مگر اسے خبر بھی نہیں) اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے

چراغ سے۔ "جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہو اپنے گئے"

اس کا دودھ چھڑایا گیا۔ شہادت عمر کے دن وہ بالغ ہوا۔ شہادت عثمان کے دن شادی ہوئی اور شہادت علی کے دن اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔

۸۷۳۔ اَشْأَمُ مِنْ عَطْرِ مَنْشِجٍ۔

(منشم کے عطر سے زیادہ منخوس) ایک عطر بیچنے والی عورت تھی اہل عرب منشم کا عطر لگا کر جنگ کے لیے عہد کرتے تھے۔ یہ عطر لگانا ہی اس کی علامت تھی کہ جنگ میں پامردی کا ثبوت دیں گے۔ اسی سے مثل بن گئی۔

۸۷۴۔ اَشْأَمُ مِنْ غُرَابِ الْبَيْتِ۔

(جدائی کے کوئے سے زیادہ منخوس) بددی جب کسی جگہ سے خیمے کو اٹھاتے تو کوئے اس جگہ کھانے کی اشیاء پر ٹوٹ پڑتے اسی لیے بدفال لے کر ان کو جدائی کے کوئے کہتے۔

۸۷۵۔ مَنْ شَبَّ عَلَى خُلُقٍ شَابَ عَلَيْهِ۔

(جس عادت پر کوئی جوان ہوا ہے، اسی پر بوڑھا ہوگا۔)

۸۷۶۔ الشَّبَابُ مَظِيَّةُ الْجَهْلِ۔

(جوانی جہالت کی سواری ہے، الشباب شیعۃ من الجنون)

(جوانی جنون کی شاخ ہے، "جوانی دیوانی")

۸۷۷۔ الْمَشَبَعَاتُ يَفْتُلُ الْجَائِعُ فَنَّا بِطَيْئًا۔

(پیٹ بھرا بھوکے کے لیے آہستہ روٹی توڑتا ہے جب کوئی

آسودہ حال دوسرے کی ضرورت کو اہمیت نہ دے۔

۸۷۸۔ إِنَّ هَذَا الشَّيْبَانَ مِنْ ذَاكَ الْأَسَدِ۔

(یہ بچہ بھی تو اسی شیر کا ہے)

۸۷۹۔ مَنْ أَشْبَهَ أَبَاكَ فَمَا ظَلَمَكَ۔

(جو اپنے باپ کے مشابہ ہوا اس نے زیادتی نہیں کی)

۸۸۰۔ أَشْبَهُهُ مِنَ الْمَاءِ بِالْمَاءِ۔

(اس سے زیادہ مشابہ جیسے پانی سے پانی)

۸۸۱۔ إِنَّهُ لَا شَبَهَ لَهُ مِنَ التَّمَرَةِ بِالتَّمَرَةِ۔

(وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ مشابہ ہے جیسے ایک کھجور دوسری سے)

۸۸۲۔ مَا أَشْبَهَ تَحَلُّ الْجِبَالِ بِالْوَأْنِ صَخْرًا هَا۔

(پہاڑوں کی چوٹیوں کے چٹانوں کے رنگ سے اتنی مشابہ ہوتی ہے)

۸۸۳۔ مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ۔

(۳۰۰)
ش

۸۷۷۔ اَشْأَمُ مِنْ بَرَاقِشٍ۔

(براقش سے زیادہ منخوس) براقش ایک کتیا کا نام ہے جس کا فہرہ گزر چکا۔

۸۷۸۔ اَشْأَمُ مِنَ الْبَسُوسِ۔

(بسوس سے زیادہ منخوس) بسوس منقذ نیمیہ کی لڑکی تھی۔ اور

جس بن مرہ بکری کی خالہ ہے۔ اس کے ایک پڑوسی کی اونٹنی

کو جس نے کلیب بن وائل ثعلبی کی چراگاہ میں چرائی چرتے ہوئے

کسی پرند کے انڈے توڑ دیے تھے۔ کلیب نے تیر مار دیا۔ بسوس

کی فریاد پر اس کے بھانجے جس بن مرہ بکری نے کلیب پر حملہ

کر کے اس کو قتل کر دیا، پھر مہل جو کہ کلیب کا بھائی، اور بنی

ثعلب کا سردار ہے۔ کلیب کے قصاص کے لیے کھڑا ہو گیا۔

اسی طرح بنی ثعلب اور بکر کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ جو

چالیس سال تک جاری رہی۔ اسی وجہ سے نحوست میں

بسوس کی نحوست ضرب المثل ہو گئی۔

۸۷۹۔ اَشْأَمُ مِنْ حَفَّارِ۔

(قہر کھودنے والے سے زیادہ منخوس) حفار سے مراد حفار القبور ہے۔

۸۸۰۔ اَشْأَمُ مِنْ دَاحِسٍ۔

(داحس سے زیادہ منخوس) داحس قیس بن زہیر کا گھوڑا، جو

نحوست میں ضرب المثل تھا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے ذبیان اور

عبس کے مابین چالیس سال تک لڑائی جاری رہی۔

۸۸۱۔ اَشْأَمُ مِنْ رَعِيفِ الْحَوْلَاءِ۔

(حولاء کی روٹی سے زیادہ منخوس) ایک عربی کے سر سے ایک

شخص نے روٹی اچک لی۔ حواء نے اس کو اپنے پڑوسی کی توہین

قرار دیا، جس سے قبیلوں میں اشتعال پیدا ہو گیا اور لڑائی میں

ایک ہزار آدمی مارے گئے۔

۸۸۲۔ اَشْأَمُ مَطَوِّيسٍ۔

(طویس سے زیادہ منخوس) طویس کہتا تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی وفات کے دن پیدا ہوا تھا۔ صدیق اکبر کی رحلت کے دن

۹۱۸۔ اَلَا مَنْ يَشْتَرِي سَهْرًا يَنْوِمُ۔
 (کیا کوئی خریدار ہے جو نیند کے بدلے بیداری کو خرید لے،
 نعمت و عافیت کی ناشکری کے موقع پر کما جاتا ہے۔

۹۱۹۔ اَشْتَرْتُ لِنَفْسِكَ وَلِلْشُّوْقِ۔
 (اپنے اور بازار کے لیے خریدو، یعنی ایسی چیز خریدو جس سے
 خود آرام اٹھاؤ اور اگر بازار میں بیچنا چاہو تو بازار میں بھی اس
 کے خریدار مل جائیں۔

۹۲۰۔ الشَّعِيرُ يُوْكِلُ وَيُذَمُّ۔
 (جو کھایا جاتا ہے، پھر اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے، مُسْنِکِ
 مذمت کرنے والے کو کہتے ہیں۔

۹۲۱۔ شُعَاعُ الشَّمْسِ لَا يُخْفَى وَنُورُ الْحَقِّ لَا يُطْفِئُ۔
 (آفتاب کی شعاع کو چھپایا نہیں جاسکتا اور حق کے نور کو
 بجھایا نہیں جاسکتا،

۹۲۲۔ اِنْ يَكُنِ الشُّغْلُ مُجْهِدًا فَإِنَّ الْفَلَاحَ مَفْسَدَةٌ۔
 (شغل اگر مشقت میں ڈالتا ہے تو بیکاری باعث فساد ہے،
 ۹۲۳۔ اِنَّ الشَّافِقَ يَسُوْءُ الظَّنَّ مُوْلَعٌ۔
 (یقیناً مہربان بُرے گمانوں کا حریص ہوتا ہے، یعنی محبت کی
 زیادتی بدگمانی کا سبب ہوتی ہے۔

۹۲۴۔ شَفَيْتُ نَفْسِي وَجَدْتُ عَنْثًا أَنْفِي۔
 (میں نے اپنے نفس کو شفا دی مگر اپنی ناک کا ٹی (یعنی ایک
 مراد پائی تو دوسرا نقصان کر لیا۔

۹۲۵۔ شَفَا فُلَانٌ عَصًا قَوْمِهِ۔
 (فلان نے اپنی قوم کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا، عصا: اتحاد جماعت
 سے کٹنا یہ ہے۔ جماعت منتشر ہو تو عصا نہیں کہتے۔

۹۲۶۔ مَا يَشْتَقُ عُجْبَارُهُ۔
 (اس کا غبار چیرا نہیں جاسکتا، یعنی کوئی اس کی گرد کو نہیں پہنتا۔
 یا اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتا۔

۹۲۷۔ شَقِيقَةُ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ۔
 (اونٹ کے منہ کا لوترا اُسے کہ پہلے آواز نکالی پھر ساکن ہو گیا
 شَقِيقَةُ: بھیپڑے حبسدادہ دو تھڑا جس کو اونٹ جوش میں
 بلبلا تے ہوئے منہ سے نکال لیتا ہے۔

(شر میں کچھ غیر بھی ہوتی ہے) خیال: جمع غیر یعنی شر میں کچھ بھی چیزیں
 بھی ہوتی ہیں۔ یا خیال: اختیار کا اسم ہے اور مثل کا مفہوم اس
 مثال کے مترادف ہے: بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ۔

(بعض شر بعض سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔)

۹۰۸۔ يَكُلُّ شَرِّ بَاعَثَ دَهْرًا كَوْنُ الْهَاطِ نَالَا هُوَ،

۹۰۹۔ لَا تَشْرِبِ السَّمَّ أَتَكَالًا عَلَى الْمَتْرِيَا قِ۔

(ترباقی پر بھروسہ کر کے زہر نہ پیو)

۹۱۰۔ اَشْرَبُ مِنَ الْهَيْمِ۔

(پیلے اونٹوں سے بھی زیادہ پینے والا) هَيْمٌ: اَهِيمُ
 دھیماء کی جمع ہے۔ بمعنی سخت پیلے اونٹ۔ هَيْمٌ
 پیاس سے مشتق ہے۔

۹۱۱۔ اَشْرَبُ مِنَ الرَّقْلِ (ریت سے زیادہ پینے والا)

۹۱۲۔ اَشْرَبُ مِنَ الْقَمْعِ (تيف سے زیادہ پینے والا)

۹۱۳۔ الشَّرْطُ أَمْلَكَ عَلَيْكَ أَمْ لَكَ۔
 (شرط زیادہ لازم ہے خواہ تمہارے مخالفت ہو یا موافق، دوستوں
 کے مابین شرط کی رعایت و حفاظت کے لیے کہا جاتا ہے۔

۹۱۴۔ شَرَعُكَ مَا يَلْغَاكَ الْمَخَلَّ۔

(تیری زاد راہ وہ ہے جو تجھے مقام تک پہنچا دے) زاد راہ کی
 اتنی ہی مقدار کافی ہے۔

۹۱۵۔ اِنَّ الشُّوَالَ قَدْ مِنْ اَدِيمِ۔

(تسمہ اپنی کھال ہی سے کاٹا گیا ہے) دو مشابہ چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے

۹۱۶۔ مَنِ اشْتَرَى الْحَمْدَ لَمْ يُغْنِ۔

(جس نے تعریف خرید لی اس کو خسارہ نہیں رہا،

۹۱۷۔ مَنْ يَشْتَرِي سَيْفِي وَهَذَا أَتْرُكُ۔

(میری تلوار کو خریدتا ہے اور یہ اس کا اثر ہے) ایسی چیز سے
 ڈرنے کے لیے کہا جاتا ہے جس میں ایک مرتبہ مبتلا ہو چکا ہو۔

یہ حارث بن ظالم مری کا مقولہ ہے۔ نعان نے اس کی گرفتاری
 کے لیے کچھ سوار بھیجے تھے۔ مقابلہ ہوا تو حارث نے ان پر بے مہری
 سے حمل کیا۔ جدھر رخ کرتا، ان کو منتشر کر دیتا اور حملہ کرتے ہوئے

یہ رجز پڑھتا: مَنْ يَشْتَرِي سَيْفِي وَهَذَا أَتْرُكُ۔

کئی سوار قتل ہو گئے اور باقی اس کو چھوڑ کر واپس ہو گئے۔

۹۲۸۔ اِنَّ الشَّقِيَّ تَرَىٰ لَهُ اَعْلَامًا۔

(بدبخت کی تم تمام علامتیں دیکھ لو گے) یعنی بدبختی کی تمام علامات چھپ نہیں سکتیں۔

۹۲۹۔ اِنَّ الشَّقِيَّ وَاَفْذُ الْاَبْرَارِ جِم۔

(بدبخت براجم کا آنے والا بیشک بدبخت ہے، لایچ میں نقصان اٹھانے والے کے لیے کہا جاتا ہے۔ براجم بنو تمیم کی ایک شاخ ہے جو خضلمہ بن مالک بن عمرو بن تمیم کے پانچ لڑکوں کی نسل ہے۔ یہ مثال عمرو بن ہند شاہ عراق کا مقولہ ہے، جس نے اپنے بھائی کے قصاص میں بنو تمیم کے سوا آدمی قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔

ننانوے آدمی قتل کر کے مزید ایک کی فکر میں تھا کہ براجم میں کا ایک آدمی سفر سے واپس ہوتے ہوئے بخیری میں عمرو بن ہند کے یہاں پہنچ گیا کہ شاید کھانے کو کچھ مل جائے، عمرو کے دریافت کرنے پر اس نے بتا دیا کہ وہ براجم میں کا ایک شخص ہے۔ عمرو بن ہند نے اس کو قتل کا حکم دیتے ہوئے کہا: اِنَّ الشَّقِيَّ وَاَفْذُ الْاَبْرَارِ جِم۔

۹۳۰۔ لَا يَشْكُرُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ۔

(وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا)۔

۹۳۱۔ اَشْكُرُ مِنْ بَرُوْقَةٍ۔

(بروقہ سے زیادہ شکر گزار) بروقہ: ایک چھوٹا پودہ ہے جو ذرا سی نمی میں اُگ آتا ہے۔

۹۳۲۔ تَشْكُرُوْا لِيْ غَيْرِ مُصْمِتٍ۔

(اس سے شکایت کر رہا ہے جو خاموش نہیں رہتا یا خاموش نہیں کرتا) نہ سنتا ہے نہ شکایت کا تدارک کر کے خاموش کرتا ہے۔

۹۳۳۔ النَّسَبَاتُ لَوْ مٌ۔

(دوسرے کی مصیبت پر غوش ہونا کمینہ پن ہے)۔

۹۳۴۔ لِكُلِّ شَمْسٍ مَّغْرِبٌ۔ (ہر سورج کو ڈوبنا ہے)

۹۳۵۔ مَا لِيْ بِشَمْسٍ لَا تَدُ قَيْبِيْ۔

(میرے سورج کو کیا ہوا کہ مجھے گرم نہیں کرتا)

۹۳۶۔ هُوَ عَتِدِيْ بِالْاَسْحَالِ۔

(وہ میرے بائیں ہے، میرا بایاں ہے۔ کم رتبہ ہے۔

۹۳۷۔ رَبُّنَا شَانِئَةٌ اَخْفَىٰ مِنْ اُمِّمٍ۔

بت سی دشمن عورتیں ماں سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں، ان کی

عیب ہوئی سے اخلاق کی درستی کا موقع ملتا ہے اور ماں شدت محبت کی وجہ سے تمھارے غیوب کو چھپاتی ہے۔ اس لیے اصلاح نہیں ہوتی۔

۹۳۸۔ يَشْنُشْنَةُ اَعْرَضُهَا مِنْ اَخْزَمٍ۔

(یہ وہ خصلت ہے جو مجھے اخزم سے معلوم ہے، ابواخزم طائی کا قول ہے، اخزم اس کا لڑکا نافرمان تھا۔ وہ مر گیا تو ابواخزم نے اس کے بچوں یعنی اپنے پوتوں کی پرورش کی، جب وہ بڑے ہوئے تو ایک روز اپنے دادا سے لڑتے ہوئے اس کو زخمی کر دیا۔ اس وقت ابواخزم نے کہا:۔

اِنَّ بَيْتِيْ طَرَجُوْا نِيْ بِاللَّدَمِ يَشْنُشْنَةُ اَعْرَضُهَا مِنْ اَخْزَمٍ (میرے بچوں نے مجھے خون آلود کر دیا ہے۔ یہ وہی عادت ہے جس کو میں اخزم ہی سے جانتا ہوں۔

۹۳۹۔ شَاهِدُ الشَّعْلَبِ ذَنْبُهُ۔ (دوڑی کا گواہ اس کی دُپ ہے)

۹۴۰۔ شَاهِدُ الْبُغْضِ النَّظَرُ۔ (بغض کا گواہ غضبناک نظر ہے)

۹۴۱۔ شَهَادَاتُ الْفَعَالِ خَيْرٌ مِنْ شَهَادَاتِ الرِّجَالِ۔

(کاموں کی شہادت لوگوں کی شہادت سے بہتر ہے)

۹۴۲۔ اَشْهُرُ مِنَ الشَّمْسِ۔ (سورج سے زیادہ مشہور)

۹۴۳۔ اَشْهُرُ مِنَ الْقَمَرِ۔ (چاند سے زیادہ مشہور)

۹۴۴۔ اَشْهُرُ مِنَ الْبَدْرِ۔ (کامل چاند سے زیادہ مشہور)

۹۴۵۔ اَشْهُرُ مِنَ الصُّبْحِ۔ (صبح سے زیادہ مشہور)

۹۴۶۔ اَشْهُرُ مِنْ فَلَاقِ الصُّبْحِ۔ (ظہور صبح سے زیادہ مشہور)

۹۴۷۔ اَشْهُرُ مِنْ عِلْمِ (پڑا یا جھنڈے سے زیادہ مشہور)

۹۴۸۔ اَشْهُرُ مِنْ نَارِ عَلِيٍّ عِلْمِ رِجَالِ رَاگ سے زیادہ مشہور) علم: بلند پڑا

۹۴۹۔ اَشْهُرُ مِنَ الْاَبْلَقِ۔ (ابلق سے زیادہ مشہور)

(ابلق سیاہ اور سفید رنگ کا گھوڑا تھا، جو گھوڑ دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے مشہور تھا)

۹۵۰۔ اَلْتَشْتَهِيْ وَالتَّشْتَكِيْ۔

(کیا تو چاہتا ہے اور شکایت بھی کرتا ہے) یعنی پہلے طلب کرتا ہے

اور جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی شکایت کرتا ہے)

۹۵۱۔ مِنْ شَهْوَةِ التَّمْرِ يَمُصُّ النَّوَى۔

(کھجور کی خواہش کے سبب گٹھلی کو چوستا ہے)

چل جاتا ہے، زائد نہیں ہے۔ صباۃ: وہ پانی جو برتن وغیرہ میں
بچ جائے۔ غیل: وہ پانی جو زمین پر بہتا ہو۔

۹۶۴۔ عِنْدَ الصَّبَاحِ يُحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى۔
(صبح کے وقت قوم رات میں چلنے کی تعریف کریگی) اس شخص کے
لیے کہتے ہیں جو راحت کی امید میں مشقت برداشت کرے یا مشقت
کے بعد راحت حاصل ہو۔

۹۶۵۔ مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ۔ (جس نے صبر کیا، کامیاب ہوا)

۹۶۶۔ الصَّبْرُ حِيلَةٌ مِنْ لَا حِيلَةَ لَهُ۔

(صبر اس کا حیلہ ہے جس کا کوئی حیلہ نہ ہو)
۹۶۷۔ الصَّبْرُ مُفْتَاۡحُ الْفَرَجِ۔ (صبر کشادگی کی کنجی ہے،
۹۶۸۔ أَصْبِرْ مِنَ الْوَيْلِ۔

(میں سے زیادہ صابر) سر پر رکھتی ہے مگر جی رہتی ہے۔

۹۶۹۔ أَصْبِرْ مِنَ الْأَرْضِ۔ (زمین سے زیادہ صابر)

۹۷۰۔ الصَّبْرُ أَعْلَمُ بِمَضْغِ فِيهِ۔

(بچہ اپنے منہ چبانے کو خوب جانتا ہے، جب کسی واقف کار کو
مشورہ دیا جائے اور وہ بھی غلط۔

۹۷۱۔ دَرَبًا صَحَّتِ الْأَجْسَامُ بِالْعَمَلِ۔

(کبھی جسم بیماریوں کے سبب سے تندرست بھی ہو جاتے ہیں،

۹۷۲۔ صَاحِبُ الْحَاجَةِ أَغْنَى۔ (ضرورت مند اندھا ہوتا ہے،

۹۷۳۔ وَصَاحِبُ الْبَيْتِ أَدْرَى بِالْكَذِبِ فِيهِ۔

(مکان والا زیادہ بہتر جانتا ہے جو کچھ مکان میں ہے)

۹۷۴۔ صَحِيفَةُ الْمُتَلَتِّمِ۔ (متلس کا خط) اس شخص کے لیے کہتے

ہیں جو خود فریبی میں مبتلا ہو کر ہلاکت میں پڑے۔ مشورہ شاعر متلس

اور اس کا بھانجا طرفہ دونوں عمرو بن ہند شاہ حیرہ کے پاس

پہنچے۔ بڑی تدبیریں کیں۔ مگر اس تک رسائی نہ ہوئی۔ طرفہ نے

تنگ آکر عمرو کی بجو کی۔ عمرو کو معلوم ہوا تو اس نے طرفہ کو قتل کرنا

چاہا۔ مگر متلس کی بجو سے ڈرتا تھا۔ اس لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ

ان کو اپنے اہل و عیال سے ملنے کا شوق دلایا اور دو خط سر بہر

ان کو دیے کہ اس کے گورنر کے پاس لیجائیں، وہ اس حکم کے

مطابق ان کو انعام دیگا۔ طرفہ اور متلس خطوط لے کر چلے تو راستے

میں ایک بوڑھے کی باتوں سے متلس کو شک ہو گیا۔ حیرہ کے ایک

۹۵۲۔ شَبَّ شَوْبًا لَكَ بَعْضُهُ (وہ بناؤ جس کا کچھ حصہ تمہارے لیے ہو)

۹۵۳۔ شَابَ يَشُوبُ شَوْبًا (بمعتی مرکب کرنا۔ ملانا)

۹۵۴۔ إِذَا شَارَتْ الْعَاقِلُ صَارَ عَقْلُهُ لَكَ۔

(جب تو نے عقلمند سے مشورہ کیا تو اس کی عقل تمہاری ہو گئی)

۹۵۵۔ شَوْفُ النُّحَاسِ يُظْهِرُ النُّحَاسَا۔

(تانبے کو صاف کرنا تانبے کو لچھی طرح ظاہر کر دیتا ہے) بدامیل کو سنوار

تو اور بگڑ جاتا ہے۔ شوف: مسقل کرنا۔ جلا دینا۔

۹۵۶۔ مِنَ الشُّوْكَ تَخْرُجُ الْوَرْدَةُ۔

(کانٹے ہی سے گلاب کا پھول نکلتا ہے۔)

۹۵۷۔ الشَّاعُ مَذْبُوحَةٌ لَا يُؤْلِمُهَا السَّلْمُ۔

(دفع شدہ بکری کو کھال اتارنے سے تکلیف نہیں ہوتی)

۹۵۸۔ كُلُّ شَيْءٍ تَنَاطُ بِرَجُلَيْهَا۔

(ہر بکری کو اس کے پاؤں کے بل ہی اٹکایا جاتا ہے، یعنی ہر شخص

اپنے ہی جرم کی سزا پاتا ہے۔ تَنَاطُ: تعلق، لٹکائی جاتی ہے۔

۹۵۹۔ لَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى يَشِيْبُ الْغُرَابُ۔

(یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ کو اسفید نہ ہو جائے) جب تک ناممکن

ممکن نہ ہو جائے اسی طرح کہا جاتا ہے، چوٹا انڈا دے یا جب

تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے مطلب یہ کہ ایسا

کبھی نہیں ہو سکتا۔

۹۶۰۔ كُلُّ شَيْءٍ دَمَنَةٌ (ہر چیز کی ایک قیمت ہے)

۹۶۱۔ بَاتَ يَشُوبُ الْقَرَّاحَ۔ (خالص پانی کو ہی بھونتا رہا، بھونکنے کے

لیے گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں رہا۔ قراح: خالص پانی۔

۹۶۲۔ نَشِيبُكَ نَاعِيكَ۔

(تیرے بالوں کی سفیدی تیری موت کا خبر ہے) ناعی: مخبر موت، یعنی

بالوں کی سفیدی قرب موت کی خبر ہے۔

(۹۰)

ص

۹۶۳۔ صَبَابَتِي تَرْدِي وَكَيْسَتْ غِيلًا۔

(میرا تھپٹ سیراب کر دیتا ہے اتنا نہیں کہ زمین پر ہے، یعنی کام

ماہ چلتے مسافر غلام سے اس نے خط پڑھوایا تو معلوم ہوا کہ خط میں انعام کی بجائے متکس کے قتل کا حکم تھا۔

۹۷۵۔ تَصَدَّقْ الْقُلُوبُ كَمَا يَصْدُقُ الْحَدِيدُ۔

(دل بھی اسی طرح رنگ آلود ہوتے ہیں جیسا کہ لوہا رنگ آلود ہو جاتا ہے،

۹۷۶۔ صَدْرُكَ أَوْ سَمْعُكَ لَيْسَ بِكَ۔

(تیرا ہی سینہ تیرے راز کے لیے زیادہ ہے)

۹۷۷۔ صُدُورُ الْاَحْرَارِ قَبُورُ الْأَسْرَارِ۔

(شریفوں کے سینے رازوں کی قبر ہوتے ہیں،

۹۷۸۔ صَادَقَ دَرْعُ السَّبِيلِ دَرْعًا يَصْدَعُ۔

(سیلاب کی ٹکر ایسی ٹکر سے ہوئی جو سیلاب کی ٹکر کو توڑ دیگی،

درو، دفع کرنا۔ یعنی ایک شے سے دوسرا اثر اس طرح ٹکرایا کہ پہلے

کا زور ٹوٹ گیا، اسی کے ہم معنی ہے الْحَدِيدُ بِالْحَدِيدِ يُفْلَحُ؛

لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔

۹۷۹۔ مَنْ صَدَّقَ اللَّهَ نَجَّاهُ اللَّهُ كَمَا نَجَّاهُ اللَّهُ سَجَّارًا اس نے نجات پائی،

۹۸۰۔ الصِّدْقُ يُنْجِي عَنْكَ لَا الْوَعْدُ۔

(عمل کی سچائی تمھاری خبر دیگی نہ کہ دھمکی، یعنی دشمن کا سچا مقابلہ

شجاعت ظاہر کرے گی نہ کہ خیالی دھمکی۔

۹۸۱۔ اَصْدَقُ مِنْ لَفْظٍ لِحَظٍ (بات سے زیادہ سچی نگاہ ہے)

۹۸۲۔ اَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا (قطا سے زیادہ سچا،

قطا بھٹ تیز، جو قطا تھا پکار کر اپنی سچی خبر دیتا ہے۔ کہتے

ہیں کہ وہ اپنی آواز بھی کبھی نہیں بدلتا

۹۸۳۔ صَوْرَةُ الْمُحْصَنِ عَيْنُ الرَّبِّ۔

(خالص چیز جھاگ سے الگ ہو گئی ہے، صرح: لازم اور متعدی

دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔

۹۸۴۔ عِنْدَ التَّصَوُّعِ تُرِيحُ رِبَاتُ كَهْنَةٍ كَافَّةٍ (وقت تو راحت پائیگا،

۹۸۵۔ الصَّوْرُ يُرِيحُ تَحْتَ الرُّعُوقَةِ۔ (صاف چیز جھاگ کے نیچے ہے،

حقیقت ظاہری سطح کے نیچے چھپی ہے، غفریب ظاہر ہو جائیگی۔

۹۸۶۔ مَنْ صَادَقَ الْحَقَّ صَرَخَهُ۔

(جو حق سے کشتی لڑیگا، حق اس کو بچھاؤ دیگا۔)

۹۸۷۔ لِكُلِّ صَادِقٍ بَيِّنَةٌ لِكُلِّ جَوَادٍ كِبْرَةٌ لِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٌ۔

(ہر متواضع کو بھی اچٹ جاتی ہے، ہر گھوڑا کبھی مٹو کر کھاتا ہے اور ہر

عالم سے کبھی لغزش ہوتی ہے، بَنَّا السَّيْفُ: تلوار اچٹ گئی، کَبَا
الْفَرَسُ: گھوڑا پھسل گیا۔ هَفْوَةُ الْعَالِمِ: عالم کی لغزش۔

۱۸۹۔ أَصْعَبُ مِنْ رَدِّ الشَّخْبِ فِي الصُّنُوعِ۔

(دو دھک دھار کو تھن میں لوٹا دینے سے زیادہ مشکل،

۱۸۹۔ كَصَفِيحَةِ الْمَسْرِ، تَشْتَدُّ وَلَا تَقْطَعُ۔

(سان کے پتھر کی طرح ہے دھار کو تیز کرتا ہے اور خود نہیں کاٹتا،

دوسروں کو نصیحت کرتا ہے مگر اپنا کام درست نہیں کر سکتا،

۹۹۰۔ صَفْقَةٌ لَمْ يَشْهَدْهَا حَاطِبٌ۔

(ایسا سودا ہے جس میں حاطب موجود نہیں تھا، یعنی معاملہ ماہر کے

بیچے انجام نہیں پایا ہے۔ حاطب بن ابی بلتعہ نہایت محتاط

اور قلمند شخص تھا، ان کی قوم کا کوئی شخص خرید و فروخت کرتا تو سودا

اسی کے ہاتھوں طے ہوتا تھا تاکہ نقصان نہ رہے۔ ایک مرتبہ کسی

نے ان کے بغیر ہی معاملہ طے کر لیا جس میں اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔

۹۹۱۔ أَصْفَى مِنَ الدَّمْعَةِ۔

(آنسو سے زیادہ صاف، جس میں گرد و غبار نہیں ہوتا۔)

۹۹۲۔ أَصْفَى مِنَ عَيْنِ الدِّيَارِ (مرغ کی آنکھ سے زیادہ صاف،

۹۹۳۔ أَصْفَى مِنَ جَنَى الْكَلِّ۔ (خالص شہد سے زیادہ صاف،

جنی النخل: کھجی کا شہد۔

۹۹۴۔ أَصْلَحَ غَيْدٌ نَشَأَ مَا أَفْسَدَ الْبَرْدُ۔

(بارش نے درخت کو دیا جس کو سردی نے خراب کر دیا تھا، جب کوئی

شخص کسی کا بگاڑ: اہو کام درست کر دے تو کما جاتا ہے۔

۹۹۵۔ وَهَلْ يُصْلِحُ الْعِظَارُ مَا أَفْسَدَ الدَّهْرُ۔

(کیا عطار اس کی ادا کر لیگا جس کو زمانے نے فاسد کر دیا ہے؟)

۹۹۶۔ لَا يَصْلِحُ رَفِيقٌ نَامَنَ لَمْ يَبْتَلِغْ دِينًا۔

(وہ شخص رفیق بننے کا صلاحیت نہیں رکھتا جو غصے کا ہتھوک نہ

لگے، غصہ نہ پی جائے۔)

۹۹۷۔ مَا لَا يَصْلِحُ تَزَكُّهُ أَصْلَحُ۔

(جو درست نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دینا ہی مناسب ہے)

۹۹۸۔ لَمْ يَصْلِحْ نَفْسُكَ يَصْلَحْ لَكَ النَّاسُ۔

(اپنے آپ کو درست کر لو، پھر لوگ درست ہو جائیں گے)

۹۹۹۔ رَبِّ صَلِّ تَحْتَ الْمَرْءِ عِدَّةً۔

(اے میرے رب! اس شخص کے نیچے نماز پڑھاؤ۔)

سے فائدہ اٹھا۔

۱۰۱۱۔ کُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا۔

تمام شکار گورخر کے پیٹ میں ہیں، الفرا: گورخر، شل کا قصہ یہ ہے کہ تین شکاریوں میں سے ایک نے خرگوش، دوسرے نے ہرن اور تیسرے نے گورخر کا شکار کیا، پہلے دو شکاری گورخر کے شکار سے بہرہ منہ لے رہے تھے۔ انھوں نے اپنے اپنے پریشانی بھاری، تب تیسرے نے کہا: کل الصيد فی جوف الفرا۔ یعنی تمہارے شکار تو میرے شکار کے پیٹ میں ہی سما جائیں گے۔

۱۰۱۲۔ فِي الصَّيْفِ ضَيَّعَتِ اللَّبَنَ۔

دو تونے دودھ تو گرمیوں ہی میں ضائع کر دیا، ضيَّعت: واحد ضوت کو خطاب کرنا، ضل واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک نوجوان عہدت دختوس بنت لقیط کی بوڑھے عمرو بن عدس کے ساتھ شادی ہوئی۔ دختوس نے بوڑھے عمرو کو ناپسند کیا اور اس سے طلاق لے کر ایک خوبصورت جوان سے شادی کر لی۔ قسمت سے اسی سال قحط پڑ گیا۔ دختوس نے اپنے پہلے شوہر کے پاس دودھ لینے کے لیے آدمی بھیجا تو عمرو نے جواب میں یہ جملہ کہا۔

ض (۸۰۰)

۱۰۱۳۔ الصَّجْعَةُ تَحْلُبُ الْعَلْبَةَ۔

دنگ آئی ہوئی اونٹنی دودھ کا برتن بھر دیتی ہے، صجعة: وہ اونٹنی جو خوشی سے دودھ نہ دے۔ تحلب: العلبۃ یعنی بڑا العلبۃ۔

(دھواؤں بھر کر دودھ دیتی ہے)

۱۰۱۴۔ اضْطَرَّ السَّيْلُ إِلَى الْعَطَشِ۔

سیلاب نے اس کو پیاس کے لیے مجبور کر دیا، خوشحال اور وسعت نے تنگی اور مفلسی میں مبتلا کر دیا۔ اسی طرح ایک بدعاس ہے: رَأَاهُ اللَّهُ بِالْحِرَّةِ تَحْتَ الْبَقَرَةِ (اللہ تعالیٰ اس کو سردی کے نیچے پیاس میں مبتلا کرے۔ حیرۃ: پیاس۔ حیرۃ: سردی)

۱۰۱۵۔ لَا يُضْفَرُ السَّحَابُ نَبْهًا الْكَلَابِ۔

کتوں کا بھونکن بادلوں کو مڑتیں پہنچاتا،

۱۰۱۶۔ الضَّرَوَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ۔

دگرجنے والے ابر کے نیچے بسا اوقات خالی بادل بھی ہوتے ہیں صلف: وہ ابر جس میں گرج ہو۔ گرجنے والے برستے نہیں۔ یہ مثل مال دار بخیل، بے عمل باتیں بنانے والے، وعدہ سے پھرنے والے اور خود ستانی کرنے والے شخص کے لیے کہتے ہیں۔

۱۰۰۰۔ اصْحَحْ عَمَّا سَاءَ كَأَسْمِيعٍ۔

دستا ہے گران باتوں سے بہرہ جو اس کو بری معلوم ہوں، بہر اپنے مطلب کی سن لیتا ہے یا بری باتوں کو ایسے طال دیتا ہے، جیسے سنا ہی نہیں۔ اسی معنی میں ہے:-

قُلْ مَا بَدَأْتُكَ مِنْ زَوْجٍ كَذِبٍ جَلْبِي أَصَمُّ وَأَذِي غَيْرُ صَمَاءٍ۔
تجھ کو جھوٹا فریب بہت کم ظاہر ہوا ہے۔ میرا تحمل بہرا ہے، مگر کان بہرے نہیں۔

۱۰۰۱۔ صَمَّ صَامَةً عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ۔

عمرو بن معدیکرب کی تنوار، عمرو بن معدیکرب کی تنوار کاٹ میں ضرب المثل تھی۔

۱۰۰۲۔ اصْنَعْهُ صَنْعَةً مَنْ طَبَّ لِمَنْ حَبَّ۔

اس کو ایسے بنا جیسے ایک تجربہ کار آدمی اپنے محبوب کے لیے بناتا ہے، انتہائی نفاست سے۔

۱۰۰۳۔ اصْنَعْ مِنَ الْخَلِّ شَدَّ كُفِّ سَازِغَةٍ كَارِغَةٍ۔

۱۰۰۴۔ اصْنَعْ مِنْ دُودِ الْقَرِّ رَشْمَ كَيْطِ سَازِغَةٍ كَارِغَةٍ۔

۱۰۰۵۔ أَصَابَ تَمْرَةَ الْغُرَابِ۔

دکڑے کو بہترین چیز مل گئی، کو بہترین کھجور اٹھاتا ہے۔

۱۰۰۶۔ مَصَارِئِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ قَوَائِدُ۔

(ایک قوم کے مصائب دوسری کے فوائد ہوتے ہیں۔)

۱۰۰۷۔ لَيْسَ بِصَيَّاحِ الْغُرَابِ يُحْيِي الْمَيِّتَ۔

دکڑے کے پکے بارش نہیں سکتی، دکڑے کے کو سے دھوڑ نہیں مرتے۔

۱۰۰۸۔ هَذَا يَصِيدُ هَذَا يَا كُلَّ السَّمَكَةِ۔

یہ شکار کرتا ہے اور یہ پھیل کھاتا ہے،

۱۰۰۹۔ صَيْدُكَ لَا تُحْرِمُهُ دَانِ شَكَارَكَ لَئِيَّ اسَ سَ عَمْرُو نَزْهَ۔

۱۰۱۰۔ يَا صَيْدُكَ إِنَّ لَكَ تَحْرِمَهُ۔

دو تیرا شکار ہے اگر تو اس کو محروم نہ کرے، یا صیدک فلا

تُحْرِمُهُ۔ تیرا شکار موجود ہے اس کو محروم نہ کر، یعنی موقع

دھڑکتی منہ پر چیزوں کو ضائع کر دیتی ہیں، مجبوری میں سب حلال ہے۔
۱۰۱۷۔ ضَرْبٌ أَخْمَاسًا رَّاسِدًا یس۔

(اس نے پانچویں دن کی باری والے اونٹوں کو چھٹے دن کی باری بنا دیا، بری تدبیر اختیار کی۔ اخماس: جمع خمس، وہ اونٹ جن کو پانچویں دن پانی پلایا جائے، اسداس: جمع سدس، وہ اونٹ جن کو چھٹے دن پانی پلایا جائے۔ یہ اونٹ پیاسے ہوتے ہیں، رگبتا کے سفر کے لیے اونٹوں کو پیاس کا عادی بنانے کی غرض سے پہلے انہیں پانچویں دن اور پھر چھٹے دن ایک بار پانی پلاتے تھے۔

۱۰۱۸۔ إِذَا ضَرَبْتَ فَادُجَةً دَرَا زَجْرَتَ فَاسْمُخْ۔
(دار کرے تو بھر پور اور جھڑکے تو ابھی طرح سناوے،

۱۰۱۹۔ إِنَّكَ تُضْرَبُ فِي حَدِيدٍ بَارِدٍ۔
(تو ٹھنڈا لوہا پیٹ رہا ہے اسے تیجہ کوشش کر رہا ہے۔

۱۰۲۰۔ إِيَّاكَ أَنْ يَضْرِبَ لِسَانُكَ عُنُقَكَ۔
(اس بات سے بچو کہ تمہاری زبان تمہاری گردن مار دے،

۱۰۲۱۔ ضَرْبُ الْحَبِيبِ أَوْجَعُ۔
(دوست کی مار کا زیادہ دکھ ہوتا ہے،

۱۰۲۲۔ إِنَّهَا لَتَضَعُ عَلَى إِيَّائِهِ۔
(وہ گھڑی پر ایک اور گھڑی ہے، یعنی بوجھ پر بوجھ۔ مصیبت پر مصیبت۔ ضَعَتْ: ترو خشک ملی ہوئی گھاس کا ایک ٹکھا۔

۱۰۲۳۔ قَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَتْ الْعُمَيَانُ تَهْدِيهِ۔
(وہ کھو یا ہی گیا جس کی رہنمائی اندھے کرتے ہوں،

۱۰۲۴۔ أَهْلٌ مِنْ ضَبِّ۔
(گروہ سے زیادہ گمراہ) جس کو اپنا بل نہیں ملتا۔

۱۰۲۵۔ إِنَّمَا يُضَيِّتُ بِالضَّيِّتِينَ۔
(بخیل کے ساتھ بخل کیا جاتا ہے، سخی کے ساتھ نہیں یا نفیس چیز کے لیے بخل کیا جاتا ہے۔ ضَيِّتٌ: وہ چیز جس کی نفاست کی وجہ سے اس کے دینے میں بخل کیا جائے۔

۱۰۲۶۔ أَضَيُّ لِي أَقْدَحُ لَكَ۔
(تو میرے لیے روشن کر میں تیرے لیے چمقائے سے آگ نکالوں گا،

تو میرے لیے کام کر میں تیرے لیے کام کروں گا۔ یا میں تیرے

لیے جتنا کام کروں گا تو میرے لیے اس سے زیادہ کر۔ روشن کرنا چمقائے سے آگ نکالنے سے زیادہ ہے۔

۱۰۲۷۔ لَا يَضِيْعُ حَقٌّ وَرَأَى طَالِبٌ۔
(وہ حق ضائع نہیں ہوگا جس کے پیچھے طلبگار موجود ہو۔

۱۰۲۸۔ لَمْ يَضَعْ مِنْ مَالِكَ مَا وَعُظَّكَ۔
(تیرے مال میں سے وہ حصہ ضائع نہیں ہوا جس نے تیری خیر خواہی کی)

۱۰۲۹۔ أَضْيَعُ مِنْ سِرَاحٍ فِي شَمْسٍ۔
(دھوپ میں چراغ سے زیادہ ضائع،

۱۰۳۰۔ أَضْيَعُ مِنْ غَمْدٍ بِلا نَصْلٍ۔
(بغیر تلوار کی میان سے زیادہ بیکار،

۱۰۳۱۔ أَضْيَعُ مِنْ قَسَمِ الشَّيْءِ (جاؤں کی چاندنی سے زیادہ بیکار،
غریب کی جوانی اور جاؤں کی چاندنی ضائع ہاتی ہے۔

۱۰۳۲۔ إِذَا ضَاغَكَ مَكْرُودٌ فَاقْبِرْهُ صَبْرًا۔
(جب مصیبت مہمان ہو تو صبر سے اس کی ضیافت کرو،

۱۰۳۳۔ أَضْيَقُ مِنْ ظِلِّ الدُّفْعِ (نیزے کے سائے سے زیادہ تنگ،

(۹)
ط

۱۰۳۴۔ تَطَأُ طَاءَ لَهَا تُخْتَنِكُ۔
(مصیبت کے سامنے سر جھکا لو تا کہ تم سے نشاء خطا کر کے گذر جائے، لکھا میں ضمیر مؤنث حادثہ کی طرف راجع ہے، اسی طرح کی

مثال ہے: دَجَّ الشَّيْءُ يَعْبُرُ: شے کو چھوڑ دو گذر جائے گا۔
یعنی برائی سے مت الجھو۔

۱۰۳۵۔ طَبِيبٌ يُدَارِي النَّاسَ وَهُوَ مَرِيضٌ۔
(وہ طبیب ہے جو لوگوں کا علاج کرتا ہے اور خود بیمار ہے، خود

بیمار ہیں اور دوسروں کی مسیحائی کرنے چلے ہیں۔

۱۰۳۶۔ يَا طَبِيبُ طَبِّ نَفْسِكَ (طبيب صاحب اپنا علاج کیجیے،
۱۰۳۷۔ الطَّبْعُ أَغْلَبُ (طبیعت زیادہ غالب ہوتی ہے،

۱۰۳۸۔ طَوَفَ الْفَتَى يُخْبِرُ عَنْ جَنَائِمِهِ أَوْ عَنْ صَمِيمِهِ۔
(جوان کی نگاہ اس کے دل کی خبر دیتی ہے یا اس کے ضمیر کی کسی کا

مقولہ ہے: لَا شَأْنَهُ عَلَى غَائِبِ أَعْدَلُ مِنْ طَرَفٍ

(تو اصل کے بعد نشان ڈھونڈ رہے) سانپ سکل گیا لکیر بیٹا کر۔

۱۰۴۹۔ لَا أَطْلُبُ أَثَرًا بَعْدَ عَيْنٍ۔

(میں اصل کے بعد اثر کو طلب نہیں کرتا، میں اصل کو حجب و مکر

نقل کے نیچے نہیں پڑتا۔

۱۰۵۰۔ كُلُّهُمْ طَالِبٌ صَبِيْدٍ۔

(سب ایک ہی شکار کے طالب ہیں) ”ایک انار صد بیمار“

۱۰۵۱۔ رُبُّ كَلْبٍ جَوَّالٌ إِلَى حَرْبٍ۔

(بہت سی طلب روائی تک پہنچا دیتی ہے)

۱۰۵۲۔ إِذَا طَلَعَ سُهَيْلٌ رُفِعَ كَيْلٌ دَوُّضِعَ كَيْلٌ۔

(جب سہیل طلوع ہوگا تو ایک پیمانہ اٹھ جائے گا، دوسرا رکھا

جائیگا، احکام و حالات کے تیز کے موقع پر کما جاتا ہے۔

۱۰۵۳۔ إِذَا طَلَعَ الْقَمَرُ كَابَ السُّهَرُ۔

(جب چاند نکلے گا تو بیداری و خوشحالی ہو جائے گی)

۱۰۵۴۔ أَطْمَعُ مِنْ أَشْعَبٍ۔

(اشعب سے زیادہ حریص، اشعب مدینہ کا ایک مشہور حریص تھا

ایک مرتبہ کسی طباق بنانے والے کے پاس سے گزرا، کتنے لگا کہ

طباق کا گھیر بڑا بنائے، شاید اس طبق میں مجھے کوئی بدیہ بھیجے

تو اس میں زیادہ چیز سائے گی۔

۱۰۵۵۔ أَطْمَعُ مِنْ طَفِيلٍ۔

(طفیل سے زیادہ حریص، طفیل کوفہ کا مشہور حریص تھا جو بغیر بلا

دعوتوں میں پہنچ جاتا تھا، اسی نسبت سے طامع اور لالچی کو

طفیلی کہتے ہیں۔

۱۰۵۶۔ مَنْ أَطَاعَ هَوَاةَ بَاعَ دَيْنَهُ بِدُنْيَاكَ۔

(جس نے اپنی خواہش کی اطاعت کی اس نے اپنے دین کو دنیا

کے بدلے میں بیچ دیا۔

۱۰۵۷۔ مَنْ أَطَاعَ غَضَبَهُ أَضَاعَ آدَبَهُ۔

(جس نے اپنے غصہ کی اطاعت کی اس نے اپنا ادب ضائع کر دیا،

۱۰۵۸۔ بَيْنَ الْمُطِيعِ وَبَيْنَ الْمُذْذِرِ الْعَاصِي۔

(فرمانبردار اور اوندھے) اعتماد اور بے اعتمادی کی حالت میں۔

۱۰۵۹۔ مَنْ يَطْلُ ذَيْلُهُ يَتَنَطَّقُ بِهِ۔

(جس کا دامن دراز ہوتا ہے وہ اس کا پٹکا باندھتا ہے) یعنی جس کے

علیٰ قلب رکھ کر گواہ کسی غائب پر امتناع دل نہیں جتنی کہ نگاہ

قلب پر،

۱۰۳۹۔ رُبُّ طَرَفٍ أَفْصَحَ مِنْ لِسَانٍ۔

(بہت سی نگاہیں زبان سے زیادہ فصیح ہوتی ہیں) اسی طرح

ایک قول ہے: الْبَعْضُ يُبْدِيهِ لَكَ الْعَيْنَانِ (بعض کو

آنکھیں بھراے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں،

۱۰۴۰۔ الطَّرِيفُ خَفِيفٌ وَالتَّلِيدُ بَلِيدٌ۔

(نئی چیز ہلک اور لطیف ہوتی ہے اور پرانی چیز بھٹس، اسی کے ہم معنی

رُكْنٌ جَدِيدٌ لَدَّہ (دہرنے کی لذت ہوتی ہے،

۱۰۴۱۔ أَطَرِقُ كَرَامَاتَ التَّعَامَةِ فِي الْقُرَى۔

(کرانظر جھکائے، شتر مرغ گاؤں میں موجود ہے، جب بڑوں کے

سامنے کوئی ذلیل و حقیر بڑھ چڑھ کر باتیں کرے، اطراق العین:

نظر نیچی کرنا۔ کرا: کر دان (ایک حقیر پرندہ ہے) کر دان یا کرا

در اصل کر دان کا مخم ہے۔

۱۰۴۲۔ لَا تَطْعِمِ الْعَبْدَ أَنْكَرَاعَ فَيْطَمِعُ بِالْإِذْرَاعِ۔

(غلام کو پاکھرت کھلاؤ ورنہ وہ دست کی طرح کرے گا) کینہ کو منہ

نہ لگاؤ ورنہ سر چڑھ جائے گا۔ کراغ: چار پائے کے پاؤں کا ٹٹنے

سے نیچے والا حصہ اور انسان کے گھٹنے سے نیچے کا حصہ، ذراع:

دو حصہ جو کراغ سے اوپر ہے۔

۱۰۴۳۔ أَطْعَمِي مِنَ السَّيْلِ۔ (سیلاب سے زیادہ سرکش،

۱۰۴۴۔ وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى مِنْ غَيْرِ كَدٍّ سَبَدْرُ كَرْمًا إِذَا

شَبَابُ الْعُرَابِ (جو بغیر مشقت اعلیٰ درجات طلب کرتا ہے

وہ انہیں اس وقت حاصل کرتا ہے جب کو اسفید ہو جائے گا،

۱۰۴۵۔ مَنْ طَلَبَ أَخَا يَلَا عَيْبَ بَقِيَّ يَلَا آيَةَ۔

(جو بے عیب بھائی تلاش کرے گا وہ بغیر بھائی کے ہی رہے گا،

۱۰۴۶۔ مَنْ طَلَبَ عَظِيمًا خَاطَرَ يَعْظِيمُ۔

(جو کوئی بڑی ہم طلب کرے گا وہ بڑے خطرہ کا سامنا کرے گا،

۱۰۴۷۔ مَنْ طَلَبَ شَيْئًا نَالَهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ۔

(جو کوئی کسی چیز کو طلب کرے گا وہ اس کے کل یا جز کو حاصل کرے

گے گا،

۱۰۴۸۔ تَطْلُبُ أَثَرًا بَعْدَ عَيْنٍ۔

(۹۰۰)

ظ

پاس زیادہ دولت ہوتی ہے وہ غیر ضروری چیزوں میں بھی خرچ کرتا ہے۔

۱۰۶۰۔ اَطُولُ مِنْ ظِلِّ الرَّحْمٰنِ (نیزو کے سایہ سے زیادہ لمبا،

۱۰۶۱۔ اَطُولُ مِنْ شَهْرِ الصَّوْمِ (روزہ کے مہینے سے زیادہ لمبا۔

۱۰۶۲۔ اَطُولُ صُلْحَةٍ مِنَ الْفُرْقَدَيْنِ۔

(فرقہ دین سے بھی زیادہ طویل صحبت، فرقہ دین: دوستاروں کا نام جو ہمیشہ یکجا رہتے ہیں۔

۱۰۶۳۔ مَا عِنْدَكَ طَائِلٌ وَلَا نَائِلٌ۔

(نہ اس کے پاس علم فضل ہے یہ عطیہ) طول: بمعنی فضل، اور نوال: بمعنی عطیہ۔

۱۰۶۴۔ طَوَيْتُهُ عَلَى بِلَالٍ أَوْ عَلَى بِلَالٍ۔

(میں نے اس کو اس کی تمی پر ہی پلیٹ دیا، یعنی اس نے تحیث کو محبت کی وجہ سے یا بائید اصلاح برداشت کر لیا گھوسا دودھ کے مشینوں کو خالی ہونے کے بعد تری پلیٹ دیتے ہیں، تاکہ آسانی سے کھل جائیں۔

۱۰۶۵۔ لِكُلِّ طَعْنٍ لَشْوَرٌ۔ (ہر لپیٹ کبھی کھلتا ہے،

۱۰۶۶۔ اَطِيبٌ مِنْ نَفْسِ الرَّبِّيعِ رَمُومِ سَادِیْ بُوَاسَ (زیادہ خوشگوار،

۱۰۶۷۔ اَطِيبٌ مِنَ الْحَيَاةِ۔ (زندگی سے زیادہ خوشگوار،

۱۰۶۸۔ طَارَتْ بِهِمُ الْعَنْقَاءُ۔

(ان کو عنقا اڑنے لگا، ایسے لوگوں کے لیے بولتے ہیں جو تمام ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ عنقا: ایک فرمیں پرندہ ہے۔

۱۰۶۹۔ اَطْيَرُ بِالطَّيْرِ يَمَادُ۔

(ایک پرندہ دوسرے پرندہ کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے،

۱۰۷۰۔ اَرَاتِ الطُّيُوسَ عَلَى اَشْكَالِهَا تَقَعُ۔

(پرندے اپنے ہم شکلوں پر پڑتے ہیں۔

۱۰۷۱۔ اَطِيشٌ مِنْ قَرَأَشَةٍ۔

(پروانہ سے زیادہ طیش میں آنے والا، جو بے سوچے سمجھے اپنے

آپ کو آگ میں جھونک دیتا ہے،

۱۰۷۲۔ يَطِيْنُ عَيْنِ الشَّمْسِ۔

(چشمہ آفتاب پر مٹی ڈالتا ہے، "چاند پر خاک ڈالتا ہے"

۱۰۷۳۔ ظَلُّرُ رَوْوَمٌ خَيْرٌ مِنْ اُرِّمٍ سَوُوْمٍ۔

(مہربان دایہ طول مال سے بہتر ہے) ظلر: دایہ۔ رَوُوْمٌ: مشفق و مہربان، سَوُوْمٌ: اکتا یا ہوا، طول۔

۱۰۷۴۔ مِنَ الظَّرْفِ جُودُ الْمُهْدِي بِالظَّرْفِ۔

(دستفردینے والے کی طرف سے برتن کی بھی سخاوت دانائی کی بات ہے، الظرف: اول بمعنی دانائی، اور الظرف: دوم بمعنی برتن۔

۱۰۷۵۔ الظَّفَرُ بِالضَّعِيفِ هَزِيْمَةٌ۔

(دکڑ در پرت پانا شکست ہے کمزور کے مقابلہ میں جیت بھی اپنی ہار ہے

۱۰۷۶۔ ظَلَّ السُّلْطَانُ سَرِيْعَ الدَّوَالِ۔

(بادشاہ کا سایہ سریع الزوال ہوتا ہے،

۱۰۷۷۔ ظَلَّالٌ صَيِّفٌ مَا كَرِهًا قَطَارٌ۔

(گرمیوں کے بادلوں میں قطار نہیں ہوتی، بے فیض مالدار کے لیے کہا جاتا ہے۔ ظلال: سایہ دار بادل۔

۱۰۷۸۔ ظَلَمَ الْمَرْءُ يَصْعَوُهُ (آدمی کا ظلم ہی اس کو پچھاڑ دیتا ہے،

۱۰۷۹۔ الظُّلْمُ مَرْتَعُهُ وَخَيْمُهُ۔

(ظلم کی چراگاہ ناقص ہے، ظلم کی عاقبت مذموم ہے۔

۱۰۸۰۔ اَظْلَمُ مِنْ حَيَلَةٍ (سانپ سے زیادہ ظالم،

۱۰۸۱۔ اَظْلَمُ مِنْ اَفْعَى (سیاہ سانپ سے زیادہ ظالم،

۱۰۸۲۔ اَظْلَمُ مِنْ كَيْلِ (رات سے زیادہ سیاہ،

۱۰۸۳۔ اَظْلَمُ مِنْ رَمِيلٍ (دیریت سے زیادہ پیاسا،

۱۰۸۴۔ يُصْبِحُ ظُلْمًا وَفِي الْبَحْرِ قَمَرٌ۔

(صبح ہوتی ہے تو پیاسا ہوتا ہے حالانکہ منہ سمندر میں ہے) مالدار بخیل کے لیے بولتے ہیں۔

۱۰۸۵۔ ظَلَّتْ الْعَاقِلُ خَيْرٌ مِنْ يَقِيْنِ الْجَاهِلِ۔

(دعقلندہ کا گمان جاہل کے یقین سے بہتر ہے،

۱۰۸۶۔ مَا ظَنَنْتُكَ بِجَارِكَ؟ قَالَ خَطِيٌّ بِنَفْسِي! (تیرا گمان اپنے پرہیزی کے متعلق کیا ہے؟ کہا وہ گان جو اپنی ذات کے متعلق ہے، آدمی اپنے اوپر ہی قیاس کرتا ہے۔

فراغت نہیں مل سکتی۔ مَعْتَبَةٌ: عتاب۔

۱۰۹۹۔ الْعِتَابُ خَيْرٌ مِنْ مَكْتُومِ الْحَقِّدِ۔

(عتاب چھپے ہوئے کینہ سے بہتر ہے)

۱۱۰۰۔ الْعِتَابُ قَبْلَ الْعِقَابِ۔

(سزا سے پہلے عتاب کرو) الْعِتَابُ: فعل محذوف اسْتَعْلَمَ کا مفعول

ہے۔ یعنی اصلاح کے لیے سزا سے پہلے عتاب کو استعمال کرو۔

۱۱۰۱۔ (اَلْعِتَابُ بَعْدَ الْمَوْتِ)۔ (موت کے بعد کوئی عتاب نہیں)

۱۱۰۱۔ مَهْ نَاتَبَةُ الْاِخْوَانِ خَيْرٌ مِنْ فَقْدِهِمْ۔

(بھائیوں کی ناراضگی ان کے نہ ہونے سے بہتر ہے) اسی طرح کہتے

ہیں ”دُرِّي الْعِتَابِ حَيَاةً مَبِيَّتٌ اَقْوَامٌ“ (عتاب میں قوموں

کی زندگی بیزاری)

۱۱۰۳۔ رَبِّ عَتِقْ شَرُّوْنِي بِرَقِي۔ (بعض آزادی غلامی سے بدتر ہے)

۱۱۰۴۔ عَشْرَةُ الْقَدَمِ اَسْلَحٌ مِنْ عَشْرَةِ اللِّسَانِ۔

(قدم کی لغزش۔ زبان کی لغزش سے زیادہ محفوظ ہے)

۱۱۰۵۔ مَا كُلُّ عَشْرَةِ ثَقَالٍ وَلَا كُلُّ فُرْصَةٍ تُتَالٍ۔

(ہر لغزش نہ واپس لی جاسکتی ہے اور نہ ہر موقع پھر ہاتھ آتا ہے)

۱۱۰۶۔ لَا يَعْجِزُ الْقَوْمُ اِذَا اتَّعَادُوا بَعْثًا۔

(جب قوم میں باہم تعاون ہو تو وہ عاجز نہیں رہتی)

۱۱۰۷۔ الْعَجْزُ رَيْبَةٌ۔ (عاجزی شک کی بد) (اگر ہے) شک ہو تو کام

نہیں ہوتا ورنہ کام کا کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جاتا ہے۔

۱۱۰۸۔ الْعَجَلَةُ فُرْصَةُ الْعِجْزَةِ۔

(جلدی عاجزی کی فرصت ہے) کام پر قابو ہو تو عاجز رہا ہی نہیں ہوتا۔

۱۱۰۹۔ اُبْعِدْ كُلَّ السُّوءِ كُلَّ يَوْمٍ يَعَادِلُهُ۔

(بُڑے کتے کے لیے اُسی جیسا کتا تیار کرنا پڑتا ہے)

۱۱۱۰۔ لَا بُسَ مِنَ الْعَدْلِ مُرْعَةُ الْعَدْلِ۔

(وہ لدی ملامت کرنا انصاف کی بات نہیں) ممکن ہے عذر قابل قبول ہو۔

۱۱۱۱۔ اَدْعَلُ مِنْ مَيْتَانِ۔ (درازا سے زیادہ منصف)

۱۱۱۲۔ لَا تُعَدُّ الْحَسَنَاءُ اِمَّا۔

(کوئی حسینہ عیب سے خالی نہیں ہوتی) ذام: عیب، مذمت، کسی

غسانی بادشاہ نے اپنے زمانہ کی حسین ترین عورت مالک بن مروعد طائیہ

کی لڑکی سے شادی کی، لیکن جب اس کو دیکھا تو بادشاہ کو پسند نہ

۱۰۸۷۔ اَكْثَرُ السُّلُوكِ مُيُونٌ۔

(اکثر گمان فریب ہوتے ہیں) مُيُونٌ: جمع مَيُّونٌ بمعنی جھوٹ۔ فریب۔

۱۰۸۸۔ عَنْ ظَهْرِهَا تُحِلُّ وَحْشًا۔

(اپنی ہی کمر کا بوجھ کھول رہی ہے) اپنی ہی مشکل حل کرتی ہے۔

وَقَرٌّ: بھاری بوجھ۔

۱۰۸۹۔ ظَاهِرُ الْعِتَابِ خَيْرٌ مِنْ بَاطِنِ الْحَقِّدِ۔

(ظاہری عتاب باطنی کینہ سے بہتر ہے) تقریباً اسی معنی کا مقلوب ہے:

۱۰۹۰۔ دَيِّبَتِي الْوُدَّ مَا بَقِيَ الْعِتَابِ۔

(محبت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک عتاب باقی ہے)

(۷۰)

ع

۱۰۹۱۔ عَبْدٌ دَجَلِيٌّ فِي يَدَيْهِ۔

(غلام اور اس کے ہاتھوں میں زیور) بکوے کی چوڑی میں انگور۔

۱۰۹۲۔ عَبْدٌ وَسُومٌ۔

(غلام اور بے شمار) یعنی کینہ اور بے لگام۔ سُومٌ: بمعنی اس کو

آزاد چھوڑ دیا۔

۱۰۹۳۔ عَبْدٌ غَيْرُكَ حَرٌّ مُشْتَكٌ۔

(غیر کا غلام تمہاری طرح آزاد ہے) اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو

بلے ہنر ہوتے ہوئے خود کو دوسروں پر فوقیت دے۔

۱۰۹۴۔ الْعَبْدُ يُفْرَعُ بِالْعَصَاوِ الْحُرُّ تَكْلِيْفُهُ الْاِسْأَرَةُ۔

(غلام کو ڈٹے سے ٹکھٹھایا جاتا ہے اور آزاد کو اشارہ کافی ہے)

۱۰۹۵۔ الْعَبْدُ مَنْ اَرْعَبَكَ (غلام وہ بھی ہے جس کا کوئی غلام نہ ہو) اس کو

اپنے کام غلاموں کی طرح خود ہی انجام دینے پڑیں گے۔

۱۰۹۶۔ فِي الْاِعْتِبَارِ غَنَى عَنِ الْاِحْتِبَارِ۔

(عبرت حاصل کرنے میں امتحان سے بے نیازی ہے) یعنی دیکھ کر عبرت حاصل

کرنے کے بعد اس جیسے معاملہ میں آزمانے کی ضرورت نہیں۔

۱۰۹۷۔ التَّعْيِيرُ رُصْفُ الْاِتِّجَارَةِ۔ (پرکھنا آدمی تجارت ہے)

۱۰۹۸۔ مَنْ عَتَبَ عَلَى الدَّهْرِ طَالَتْ مَعْتَبَتُهُ۔

(جس نے زمانہ پر عتاب کیا اس کا عتاب طویل ہو گیا) زمانہ کبھی

تکلیف سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس پر عتاب سے کبھی

آئی اس پر عمت نے کہا: لَا تُعْذِرُ الْحَسَنَاءُ ذَمًّا.

۱۱۱۳۔ لَا يُعْذَرُ الْحَوَارِيُّ مِنْ أَمْرِ حَتَّةً.

رکئی اوٹنی کا بچہ اپنی ماں کی شفقت نہیں کھوتا، حواری: اوٹنی کا نومو لو دیکھ، حنہ: مہربانی، شفقت.

۱۱۱۴۔ الْعَدِيْلُ مَنْ احْتَجَّ إِلَى كَيْسِهِ.

(مفسر وہ ہے جو کینے کا محتاج ہو جائے)

۱۱۱۵۔ مَنْ تَعَذَّى الْحَقُّ صَاقٍ مَذْهَبُهُ.

جس نے حق سے تجاوز کیا اس کا راستہ تنگ ہو گیا.

۱۱۱۶۔ اَعْدَى مِنَ الشَّيْءِ (سُيِّئًا) سَيِّئًا سَيِّئًا دُونَهُ وَالْأَمْرُ

۱۱۱۷۔ اَعْدَى مِنَ الشَّيْءِ (سُيِّئًا) سَيِّئًا سَيِّئًا دُونَهُ وَالْأَمْرُ

کُفْرًا: بمعنی تیز دوڑنا یہ دونوں عرب میں مشہور تیز دوڑنے والے تھے۔

۱۱۱۸۔ اَعْدَى مِنَ الْعُقُوبِ (بِجْهٍ سَيِّئًا دُونَهُ) عَدَاوَةٌ

سے مانعہ ہے۔

۱۱۱۹۔ اَعْدَى مِنَ الْجَرْبِ.

(کھلی سے زیادہ متعدی) عدوی سے مشتق ہے بمعنی ایک سے دوسرے کو مرض لگ جانا۔ چھوٹ لگنا.

۱۱۲۰۔ إِيَّاكَ وَمَا يَعْتَذِرُ مِنْهُ.

(اس چیز سے بچو جس سے معذرت طلب کی جائے) ایسا کام ہی نہ

کرو جس سے معذرت کی ضرورت پیش آئے.

۱۱۲۱۔ وَالْعُذْرُ عِنْدَ كِتَابِ النَّاسِ مَقْبُولٌ.

(معذرت شریف لوگوں کے یہاں مقبول ہوتی ہے)

۱۱۲۲۔ لَعَلَّ لَهُ عُذْرٌ أَوْ أَنْتَ تَلُوْمُ.

(شاید اس کو عذر ہو اور تو اس کو ملامت کر رہا ہو) مہر ع اول یہ ہے:

۱۱۲۳۔ تَيَأْتُ وَلَا تَجْعَلُ يَلُوْمَكَ صَاحِبًا أَوْ بَسْطًا سَيِّئًا سَيِّئًا دُونَهُ

اپنے ساتھی کو ملامت کرنے میں جلدی نہ کرو۔

۱۱۲۴۔ اَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ (اس نے تو عذر پیش کر دیا جس نے ڈرایا تھا)

مصیبت کے لیے اب اس کو ملامت نہیں کی جاسکتی.

۱۱۲۵۔ الْمَعَاذُ مَكَادِبُ (عذر اکثر جھوٹے ہوتے ہیں)

معاذر: جمع معذرت اور مکاذب: جمع کذب، بخلاف تیس۔ جیسے

کہ محاسن جمع حسن۔ اسی معنی میں ہے: الْمَعَاذُ قَدْ يَشُوْهُ بُسْطًا

الْكُذْبُ. (معذرت میں کبھی کذب ملا ہوتا ہے).

۱۱۲۶۔ رَجَالُهُ تَعْتَقِلُ الرِّمَاحَ.

(پیدل ہے) جو نیزوں کو گھوڑے پر نصب کیے ہوئے ہے۔

جینیت سے زیادہ شہنی مارتا ہے۔ رَجَالُهُ: جمع رَجُلٌ: پیدل فوج

جس کے پاس گھوڑے نہ ہوں۔ اعتقال: سوار کا نیزہ کو گھوڑے

کے پہلو اور ران کے درمیان قائم رکھنا.

۱۱۲۷۔ عَرَضَ لِلْكَرِيْحِ دَلَّ تَبَاجُثُ.

(شریف سے اشارہ کنایہ سے کو۔ صاف مت کو) بخت: ہر

چیز کا خالص اور صاف حصہ.

۱۱۲۸۔ إِنْ فِي الْمَعَارِيفِ لَسَمْدُودَةٌ عَنْ الْكُذْبِ.

(کنایوں میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے) مَعْرِفٌ: جمع معارف

ظاہری معنی جھوٹ کر دور کے معنی مراد لینا، منہ حشر: وسعت و

گنجائش.

۱۱۲۹۔ عَرَفَتِ الْخَيْلُ قُرُوسًا نَحَا.

(گھوڑوں نے اپنے سواروں کو پہچان لیا ہے) حریف کی طاقت کا

اندازہ کر کے اس کے سامنے جھک گیا.

۱۱۳۰۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ.

(جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا)

۱۱۳۱۔ مَنْ عَرَفَ بَشِيًّا لَسَبَّ لَائِيًّا.

(جو شخص کسی چیز کے ذریعہ پہچان لیا اسی کی طرف متسوب ہو گیا)

۱۱۳۲۔ لَا يَعْرِفُ الْحَقُّ مِنَ الْمُنَى.

(حق کو باطل سے متماز نہیں کر سکتا) حقی: بمعنی حق یا کلام ظاہر، منی:

معنی باطل یا کلام خفی، اس شخص پر بولا جاتا ہے۔

۱۱۳۳۔ لَا يَعْرِفُ الْعُودُ كَالْعَاجِيزِ.

(لکڑی کو چبانے والے کی طرح کوئی دوسرا نہیں معلوم کر سکتا) کسی

چیز کو وہی جان سکتا ہے جو اچھی طرح جانچ کر دیکھے۔ عاجم کلای

کو چبا کر معلوم کرنے والا.

۱۱۳۴۔ مَا يَعْرِفُ قَبِيْلًا مِنْ دَرَبِيْرٍ.

(آنے والے کو جاننے والے سے متماز نہیں کر سکتا)

۱۱۳۵۔ لَا يَعْرِفُ الْكُؤُوعُ مِنَ الْبُؤُوعِ.

(دوہ ہاتھ کی ہڈی کو پاؤں کی ہڈی سے متماز نہیں کر سکتا) کُؤُوعٌ: انگوٹھے

سے متصل پہنچنے کی ہڈی، بُؤُوعٌ: پاؤں کے انگوٹھے سے متصل ہڈی.

(البتی حاملہ گھوڑے سے زیادہ نایاب) یعنی نادر و نایاب، البتی تر گھوڑے کو کہتے ہیں اور عقوقی حاملہ گھوڑی کو۔ نہ گھوڑا حاملہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص ناممکن چیز طلب کرے تو کہا جاتا ہے کہ البتی عقوق مانگ رہا ہے، یعنی ایسی چیز مانگتا ہے جو کبھی نہیں ہو سکتی۔

۱۱۴۸۔ اَعَزُّ مِنْ بَيْضِ الْاَنْثَى

دشکرہ کے انڈوں سے زیادہ نایاب) کہا جاتا ہے کہ الوق (شکرہ یا عقاب) کے انڈوں تک رسائی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور دشوار گزار گھاٹیوں میں انڈے دیتا ہے۔

۱۱۴۹۔ اَعَزُّ مِنَ الْعُقَابِ الْاَعْصَمُ

(سفید پاؤں والے کوسے سے زیادہ نایاب) اعصم: سفید پاؤں کا کوا۔

۱۱۵۰۔ اَعَزُّ مِنَ الْكِبْرِيَّتِ الْاَحْمَرِ (سرخ گندھک سے زیادہ نایاب)

۱۱۵۱۔ اَعَزُّ مِنْ عُنُقَاءٍ مُغْرِبٍ (عقاس سے زیادہ نایاب)

۱۱۵۲۔ اَعَزُّ مِنْ فَيْحِ الْبَعُوضِ (نمچر کے مغز سے زیادہ نایاب)

۱۱۵۳۔ اِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ (نگلی کے بعد یقینی فراخی ہے)

۱۱۵۴۔ لَيْسَ هَذَا بِعَشْكَ فَادْرُبِي

(یہ تیرا گھونسا نہیں ہے لہذا چلی جا)۔ یہاں بھاری دال نہیں گنتی۔

۱۱۵۵۔ اَعَشَبْتَ قَا نَزَلَ

(تو گھاس پر پہنچ گیا ہے لہذا اتر پڑا مقصد حاصل ہو گیا۔ اب قناعت کرو۔

عشبت المرجل: بمعنی تر گھاس پالینا۔

۱۱۵۶۔ بِكُلِّ عَشْبٍ آثَارُ رَيْحِي

(ہر گھاس میں چرنے کے آثار موجود ہیں)۔ ”جہاں دولت ہو، وہاں مانگنے والے بہت“

۱۱۵۷۔ نَعَا شَرُّوْا كَالْاِخْوَانِ وَنَعَا مَلُوْا كَالْاَجَانِبِ

(بھائیوں کی طرح بسر کرو اور جنسیوں کی طرح معاملہ کرو، یعنی معاملات بالکل صاف رکھو۔

۱۱۵۸۔ اِنَّ الْاَعْصَا مِنَ الْعُصَيَّةِ

(لاٹھی چھڑی سے سی بنتی ہے، برٹھی چیز ابتدا میں چھوٹی ہی ہوتی ہے۔

عصیہ: عصا کی تصنیف ہے۔ یا عصا ایک گھوڑے کا اور عصیہ اس کی ماں کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ گھوڑا اپنی ماں کی نسل ہے۔ اصل سے

مشابہت کے موقع پر بولا جاتا ہے۔

۱۱۵۹۔ بَيْنَ الْاَعْصَا وَبَيْنَ اَيْهَا

۱۱۳۶۔ لَا يَعْرِفُ الْكَلْعَ مِنَ الْبَاعِ

(وہ گنے کی ہڈی اور پھیلے ہوئے ہاتھوں میں تیز نہیں کر سکتا۔ کالْع: پہنچنے

کی ہڈی۔ باع: دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کی مقدار۔

۱۱۳۷۔ لَا يَعْرِفُ اَلْهَوَّ مِنَ الْبَرِّ

(دوہ تہی اور چوہے میں فرق نہیں کرتا، ہڑ: بلی، بر: چوہا۔

۱۱۳۸۔ الْاِعْتِرَافُ يَهْدِي اِلَى اِقْتِرَافٍ

(اعتراف کر لینا ارتکاب و جرم کو ختم کر دیتا ہے)

۱۱۳۹۔ مَنْ عَزَّ بَزَّ (خو غالب آیا اس نے چھین لیا)

۱۱۴۰۔ اِذَا عَزَّ اَخُوكَ فَهَنَّ

(جب تیرا بھائی عزت پائے تو تو نرم ہو جا، وہ عزت ہو کر بھی غرور نہیں

کرے گی یا وہ سخت ہو تو نرمی اختیار کر، ورنہ تعلق ختم ہو جائے گا۔

۱۱۴۱۔ عِزُّ الرَّجُلِ اِسْتِغْنَاءٌ عَنِ النَّاسِ

(آدمی کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہو جانا ہے)

۱۱۴۲۔ اَعَزُّ مِنْ كَلْبٍ دَائِلٍ

(دائل کے کتے سے زیادہ معزز، قید و سیر کے سردار کلب بن بریم

بن حارث کا اصلی نام حارث بن وائل تھا۔ یہ بڑا معزز سردار تھا۔ اس

کی کسی چیز کی طرف کوئی شخص نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب

کوئی قطعہ زمین اس کو پسند آجاتا تو وہ اپنے ایک چھوٹے سے

کتے کو وہاں چھوڑ دیتا۔ جہاں تک کتے کے بھونکنے کی آواز جاتی وہ اس

کا مخصوص قطعہ ہو جاتا، اس طرح چراگاہ کی حدود وہ کتا مقرر کرتا تھا۔

اسی وجہ سے اَعَزُّ مِنْ كَلْبٍ دَائِلٍ مشہور ہو گیا۔ پھر یہ کتا اتنا مشہور

ہوا کہ لوگ دائل کا نام ہی کلب سمجھنے لگے۔

۱۱۴۳۔ اَعَزُّ مِنَ الزَّبَاغِ

(زباز سے زیادہ معزز، زباز: مالک کی ایک عورت جو حیرہ کی حکمران تھی۔

شکر کے ساتھ خود حملہ آور ہوتی تھی، اس نے سموائل کے دو مضبوط

قلوں مایو اور ابینی پر حملہ کیا تھا۔ یہ عورت عجب بہت وقوت و شکر

اور عزم بالجزم میں مشہور تھی۔

۱۱۴۴۔ اَعَزُّ مِنْ اَنْفِ الْاَسَدِ (شیر کی ناک سے زیادہ عزت والا)

۱۱۴۵۔ اَعَزُّ مِنْ جَبْهَةِ الْاَسَدِ (شیر کی پیشانی سے زیادہ عزت والا)

۱۱۴۶۔ اَعَزُّ مِنَ الْاَبْلَقِ الْجَوْدِ (فصا کے عقاب سے زیادہ عزت والا)

۱۱۴۷۔ اَعَزُّ مِنَ الْاَبْلَقِ الْعَقُوقِ

لاٹھی اور اس کی چھال کے درمیان، قریبی تعلق میں دخل دینے کی کوشش کرنا۔ تقریباً اسی موقع پر کہا جاتا ہے "گوشت سے ناخن جدا کر نیکی کوشش کرنا۔ رُبَّ عَطَبٍ تَحْتَ طَلَبٍ۔

(طلب کے نیچے بہت سی بریا دیاں ہیں،

۱۱۶۱۔ لَا عِطَرَ بَعْدَ عُرُوْيسٍ۔

(عروس کے بعد کوئی عطر نہیں) اسماء بنت عبد اللہ غدریہ کا مقولہ ہے اپنے شوہر عروس کے بعد اس نے نوفل نامی ایک شخص سے شادی کی جو پہلے کے بالکل برعکس بنیل، بد صورت اور گندہ دہن تھا۔ ایک مرتبہ نوفل کے ساتھ وہ اپنے پہلے شوہر عروس کی قبر سے گزری اور اس کو یاد کر کے رونے لگی۔ پہلے شوہر کا مرنے سے کہتے ہوئے اس نے نوفل پر تعزین کی۔ نوفل نے برہم ہو کر اس کو قبر سے اٹھا دیا۔ اٹھتے ہوئے اس کی عطر کی شیشی عروس کی قبر پر گر پڑی۔ نوفل نے عطر کے اٹھانے کے لیے کہا تو اسماء نے یہ فقرہ کہا کہ عروس کے بعد کوئی عطر نہیں۔

۱۱۶۲۔ بَيِّنْتُهُمْ عِطْرُ مَنْشِيْجٍ۔

(ان کے درمیان منشم کا عطر لگا ہوا ہے) یعنی بڑا اثر ہے منشم کہہ کر ایک عطر فروش عورت جس سے لڑنے والے عطر خریدتے تھے، اور آخر دم تک لڑنے کا عہد کرتے تھے۔

۱۱۶۳۔ اَعْطَشْتُ مِنْ ثَعَالَةٍ۔

(لوٹری سے زیادہ پیاسا، تعالہ: لوٹری۔ تعالہ ایک شخص کا نام تھا جو پیاسا ماریا گیا۔

۱۱۶۴۔ اَعْطَشْتُ مِنْ رَمِيلٍ۔ (ریت سے زیادہ پیاسا،

۱۱۶۵۔ اَعْطَشْتُ مِنْ قَمِيْجٍ۔ (قیف سے زیادہ پیاسا)

۱۱۶۶۔ اَعْطَاكَ غَيْضًا مِنْ فَيْضٍ۔

(اس کو شیر پانی میں سے تھوڑا سا دیا یعنی دریا سے تھوڑے یا سمندر سے شبنم۔

۱۱۶۷۔ اَعْطَى مَقُولًا دَعْدِمَ مَعْقُولًا۔

(اس کو گفتگو کی طاقت عطا ہوئی مگر معقولیت موردِ کر دی گئی،

بے عقلی کے ساتھ جھک کرنے والا۔

۱۱۶۸۔ وَارْتَمَا نَعِطِيَّ الَّذِي اُعْطِينَا۔

(جو ہمیں دیا گیا ہے وہی ہم دیتے ہیں) یعنی اس سے بہتر دینا

قدرت سے باہر ہے۔ ایک شخص کے یہاں مسلسل تین لڑکیاں

پیدا ہوئیں تیسری لڑکی ہوئی تو وہ دوسرے مکان میں منتقل ہو گیا۔

اس وقت عورت نے کہا۔ ہ۔ مَا لَإِلَهِ الدَّلْفَاءِ لَا يَا بَيْتَنَا؟

وَهُوَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَلِينَا بِدِيقَضْبٍ اِنْ كُنْ نَلْدُ

الْمَنْبِيَّاتِ وَارْتَمَا نَعِطِيَّ الَّذِي اُعْطِينَا۔ (ابوالدلفاء کو

کیا ہو گیا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتا۔ حالانکہ وہ ہمارے قریبی گھر

ہی ہے۔ ہم لڑکے پیدا نہ کریں تو وہ غصہ ہوتا ہے حالانکہ ہم تو وہی

دیں گے جو ہم کو عطا کیا گیا ہے، مرد نے یہ شعر سنے تو بیوی کے گھر

واپس آ گیا۔

۱۱۶۹۔ اَعْطَاكَ اَخَاكَ تَمْرَةً فَإِنْ اَبَى فَجَمْرَةً۔

(اپنے بھائی کو کھجور دو، انکار کرے تو انکار گارہ دو) بھائی کام نہ

دے تو سنبھلی کرو۔

۱۱۷۰۔ اَعْطِ الْقَوْسَ بِأَرِيْهَا۔

(دکان اس کے بنانے والے کو دو) یعنی کام تجربہ کار کو دو۔

۱۱۷۱۔ مَنْ عَقَّطَهُ صِغَارُ الْمَصَائِبِ ابْتِلَاءً يَكْبَارُ رَهًا۔

(چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھا، اللہ نے اس کو بڑی مصیبتوں میں مبتلا کیا،

۱۱۷۲۔ الْعُقُوقُ كُلُّ مَنْ لَمْ يَشْكَلْ۔

(اولاد کی سرکشی ان لوگوں کے لیے اولاد کھود دینے کے ہی برابر ہے

جنہوں نے اولاد نہیں کھوئی، دونوں صورتوں میں اولاد سے راحت

نہیں ملتی۔

۱۱۷۳۔ الْعُقُوبَةُ الْأُمُّ حَالَاتِ الْقُدْرَةِ۔

(سزا دینا قدرت کی حالتوں میں سب سے گھٹیا درجہ ہے) مواف

کرنا ہی بہترین حالت ہے۔

۱۱۷۴۔ يَا عَا قِدْ اَذْكُرْ حَلَا۔

(اے گرہ لگانے والے کھولنے کا وقت بھی یاد رکھ)

۱۱۷۵۔ لِكُلِّ عَقْدٍ حَلٌّ۔ (ہر گرہ کھلتی ہے)

۱۱۷۶۔ اَعْقَدُ مِنْ ذَنْبِ الْعَقَبِ۔

(گواہ کی دم سے زیادہ گرہ دار گواہ کی دم بہت سی گرہوں کے لیے

مشہور ہے، جیسے کتے کی دم کچی کے لیے۔

۱۱۷۷۔ اَعْقِلْ لِسَانَكَ اَلَا فِيْ اَرْبَعَةٍ۔

(اپنی زبان روکو مگر چار موقعوں پر عداحت کی وضاحت باطل کا

استیصال ۳۱ اظہار حکمت و علم ۳۲ ادائے شکر۔

۱۱۷۸۔ الْعَقْلُ ذَرِيَّةُ نَاصِحٍ (عقل خیر خواہ ذریعہ ہے)
 ۱۱۷۹۔ عَقْلُ السَّرَّاءِ فِي تَجَالِهَا بِحَالِ السَّرَّاءِ فِي عَقْلِهِ۔
 (عورت کی عقل اس کی خوبصورتی میں ہے اور آدمی کی خوبصورتی

اس کی عقل میں ہے)
 ۱۱۸۰۔ اَعْقَلُ النَّاسِ اَعْذَرُهُمُ لِلنَّاسِ۔
 (سب لوگوں میں زیادہ عقلمند وہ ہے جو لوگوں کا عند زیادہ قبول کرنے والا ہے)

۱۱۸۱۔ بِعِلَّةِ الْمَرْجِ يُسْقَى الْمَرْعُ۔
 (کھیتی کی وجہ سے کدو کو بھی پانی پلا دیا جاتا ہے)
 ۱۱۸۲۔ بِعِلَّةِ الْوَرْشَانِ يَأْكُلُ رَطْبُ الْمَشَانِ۔
 (ورشان کے بہانہ سے کھجوریں کھا رہے ہیں ورشان کبوتر کی قسم کا

ایک پرندہ ہے، مشان کھجور کی ایک بہترین قسم ہے، شکاری اپنے
 شکار کا پیچھا کرنے کے بہانے غلستان میں گھس کر کھجوریں کھا رہے ہیں)
 ۱۱۸۳۔ اَعْلَى مِنْ قُوَارِدٍ۔
 (چوڑی سے زیادہ چٹنے والا) چوڑی کی طرح چمٹ گیا۔
 ۱۱۸۴۔ لَيْسَ الْمُتَعَلِّقُ كَالْمُتَنَاقِ۔
 (تھوڑی چیز پر اتنا تکیہ کرنے والا پیٹ بھرے کی طرح نہیں) متناقض: اپنے

ذوق کے مطابق پسندیدہ چیز کو چھانٹ لینے والا۔
 ۱۱۸۵۔ يَعْلَمُ مِنْ آيْنٍ (أَوْ مِنْ حَيْثُ) تُوْ كُلُّ الْكَيْفِ۔
 (وہ جانتا ہے کہ شانہ دوست) کو کہاں سے یا کس طرح کھایا جاتا ہے
 یعنی کام کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔ شانہ سے گوشت چھڑا کر اگر

بے سلیقہ کھایا جائے تو اکثر اپنے اور دوسروں کے کپڑے خراب
 کر دیتا ہے۔
 ۱۱۸۶۔ مَا كُلُّ يَعْلَمٍ يُقَالُ (ہر وہ چیز تو معلوم ہو سکتی جانی ضروری نہیں)

۱۱۸۷۔ لَا تَعْلَمُ الْبَيْتِيْمَ الْبُكَاءُ دِيمَمٌ كَوْرُونَانَهُ سَكْهَانَا،
 ۱۱۸۸۔ عِلْمُ الشَّيْءِ لَا جَهْلُهُ (کسی چیز کا علم بہتر ہے نہ کہ عدم علم،

۱۱۸۹۔ الْعِلْمُ فِي الصُّدُورِ وَلَا فِي السُّطُورِ۔
 (علم سینوں میں ہے نہ کہ سطریں) علم در سینہ باید نہ در سفینہ

۱۱۹۰۔ اِنَّهُ لَعَالَمٌ بِمَنَابِتِ الْقَصِيصِ۔
 (وہ قصص کے اگنے کے مقامات کو جاننے والا ہے) قصص: جمع
 قصصہ۔ ایک پودا ہے جو کھنسی کے پاس اگتا ہے۔

۱۱۹۱۔ لِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٌ۔
 (ہر عالم کے لیے کوئی نہ کوئی لغزش ہے) ہفوة: لغزش۔ اسی کے لیے

۱۱۹۲۔ الْعُلَمَاءُ اُمْنَاءُ اَللّٰهِ عَلٰی خَلْقِهِ۔
 (علماء مخلوق خدا پر خدا کے امین ہیں)

۱۱۹۳۔ اَعْلَمُ بِهَا مَنْ عَصَى بِهَا۔
 (اس کو وہی زیادہ جانتا ہے جس کو اس کا اچھوٹا لگا ہے) جس نے

برتا ہے وہی اس کو زیادہ جانتا ہے۔
 ۱۱۹۴۔ اَعْلَامُ اَرْضٍ جُعِلَتْ رِطَابًا نَحًّا۔
 (زمین کے پہاڑ پست زمین بنا دیے گئے) جب کہیں کے معزز لوگ

ذہیل کر دیے جائیں۔
 ۱۱۹۵۔ مَنْ عَلَبَ هَمَّتْ طَالَ هَمُّهُ۔
 (جس کی ہمت بلند ہوگی اس کا فکر بھی طویل ہوگا۔)

۱۱۹۶۔ اَعْمَرُ مِنْ حَيَّةٍ۔
 (سانپ سے زیادہ عمر والا) خیال تھا کہ سانپ کو جب تک مارا نہ جائے

وہ نہیں مرتا۔ نیز یہ کہ ٹوٹ ٹوٹ کر سانپ سے سانپ بنتا رہتا ہے۔
 ۱۱۹۷۔ اَعْمَرُ مِنْ نَسِيرٍ۔
 (گدھے سے زیادہ عمر والا) مشہور ہے کہ اس کی عمر پانچ سو سال ہوتی ہے۔

۱۱۹۸۔ لِكُلِّ عَمَلٍ ثَوَابٌ وَلِكُلِّ كَلَامٍ جَوَابٌ۔
 (ہر عمل کی جزا ہے اور ہر کلام کا جواب ہے۔)

۱۱۹۹۔ الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا۔
 (اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے) یہی مطلب ہے اس قول کا کہ: خَيْرُ

الْأُمُورِ أَحْمَدُهَا مُعَبِّتٌ۔ (بہترین کام وہ ہے جو قابل
 تعریف انجام کا حامل ہو۔)

۱۲۰۰۔ إِيَّاكَ اَخْنَى وَاسْمِعِي يَا جَارَةً۔
 (تجھے ہی مراد لیتا ہوں اور سن لے اے لونڈی) جب کوئی تجاہل

عارفانہ کرے یا مخفی مراد کو ظاہر کرے۔
 ۱۲۰۱۔ وَمِنْ الْعَنَاءِ رِيَا ضَلَّةٌ الْهَدَمِ۔
 (بڑھاپے میں ریاضت اور مجاہدہ زحمت ہے) عمل بھی مشکل اور

نتیجہ بھی غیر یقینی۔
 ۱۲۰۲۔ عَادَ الْأُمُورُ إِلَى نَصَابِهِ (معادلہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا،

۱۲۰۳۔ عَادَ الْأُمُورُ إِلَى نَصَابِهِ (معادلہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا،

۱۲۰۴۔ عَادَ الْأُمُورُ إِلَى نَصَابِهِ (معادلہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا،

۱۲۰۵۔ عَادَ الْأُمُورُ إِلَى نَصَابِهِ (معادلہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا،

۱۲۰۳۔ عَادَتْ لِعَيْتِرِهَا لَمَيْسٌ۔

(لمیس اپنی عادت کی طرف لوٹ گئی، لمیس ایک عورت کا نام تھا۔

۱۲۰۴۔ عَوَدْتُ كُنْدَةً عَادَةً فَاصْبِرْ لَهَا۔

(تو نے کندہ کو ایک عادت کا خوگر بنا دیا ہے لہذا اب صبر کرو)

۱۲۰۵۔ عَوْدِي إِلَى مُبَارِكِكَ۔

(اپنے ٹھکانہ بخان کی طرف لوٹ آ، یعنی پہلی حالت پر واپس آجا۔

۱۲۰۶۔ الْعَوْدُ أَحْمَدُ۔

(لوٹنا زیادہ قابل تعریف ہے، اچھا کام کرنا محمود ہے تو اس کو دوبارہ

کرنا زیادہ محمود ہوگا۔ یہ مثل اس شعر سے ماخوذ ہے۔

وَأَحْسَنُ نَمْرُودٍ فِي الْبَيْتِ كَانَ بَيْنَنَا وَإِنْ عَادَ بِالْإِحْسَانِ نَالَهُ الْوُدُّ أَحْمَدُ

(نمرود نے ہمارے باہمی معاملات میں احسان کیا اور اگر اس نے

پھر احسان کو دہرایا تو زیادہ محمود ہے۔

۱۲۰۷۔ لَيْكِلْ عَوْجٍ عَصَا رَعَى۔

(دہر لڑی کا ایک بچوڑ ہے، عَصَا رَعَى، رس، بچوڑ، چوبادہ لڑی چبانے

میں میٹھی ہے تو اس کا رس بھی بیٹھا ہوگا اور لڑی ہے تو کڑوا ہے

یعنی ہر نظر ہر ایک باطن بھی ہوتا ہے۔

۱۲۰۸۔ مَا كُلُّ عَوْرَةٍ تُصَابُ۔

(ہر چھپے ہوئے خصل کا صبح پتہ نہیں لگ جاتا۔ محض اندازہ ہوتا

ہے اور اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔

۱۲۰۹۔ رِبْسُ الْوَعُظِ مِنْ جَمَلٍ قَبِيْدُ۔

(اونٹ کے بدلے اس کے پاؤں کی رسی بڑا بدلہ ہے کسی چرواہے

نے اونٹ کھوکھلا کر اس کے پاؤں باندھنے کی رسی آقا کو لا کر دی تو

آقا نے کہا تھا۔

۱۲۱۰۔ مَنْ أَعَانَكَ عَلَى الشَّرِّ ظَلَمَكَ۔

(جس نے شر میں ہتھاری مدد کی اس نے تم پر ظلم کیا۔)

۱۲۱۱۔ أَعِنِ أَخَاكَ وَلَوْ بِالصَّوْتِ۔

(اپنے بھائی کی مدد کر خواہ آواز سے ہی ہو)

۱۲۱۲۔ أَعِيْزِيْ وَخَسَلَاكَ ذَمُّ۔

(میری مدد کر اور مذمت تجھ سے دور ہو جائیگی) طلبِ امداد کے

باوجود مدد نہ کرنے کا عیب دور ہو جائے گا۔

۱۲۱۳۔ مَا يُعْوِيْ وَلَا يُنْبِئُ۔

(نہ غبراتا ہے نہ بھونکتا ہے) نَبِئُ: لازم اور متعدی ہے اور متعدی

بلا واسطہ بھی جیسے نَبِئُ الْكَلْبُ الْفُلَانًا۔ اور بلا واسطہ علی بھی جیسے

نَبِئُ الْكَلْبُ عَلَيْهِ مُتَعَدًى معنی میں استعمال کرنا ہو تو نَبِئُ کی بجائے

عَوَاءُ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے معنی ہیں، نہ کاٹنے کا نہ

بھونکنے کا۔ بیکا را اور نکما۔ لَعْوِي دُنْبِئُ (بسیخہ معروف) بھی

مثال میں مستعمل ہے۔ مطلب یہ کہ نہ خوشخبری دینا ہے نہ بُخارا

ہے۔ کیونکہ کہنے کا بھونکنا ممان کی آمد کی خوشخبری ہوتی ہے اور

بھیڑے کا غراتا حملہ کرنے کی علامت ہے۔

۱۲۱۴۔ لَا فِي الْعِيْرِ وَلَا فِي النَّفِيْرِ۔

(نہ عیر میں اور نہ نفیر میں) چھوٹی بڑی کسی بھی مہم کی صلاحیت

نہیں رکھتا۔ اس بنا پر حقیر سمجھا جاتا ہو۔ عیر: اونٹوں یا

گدھوں کا قافلہ یا صرف قافلہ۔ نفیر: وہ جماعت جو دس سے کم

تعداد میں ہو۔ یا عیر سے قریش کے اس قافلہ کی طرف

اشارہ جو ابوسفیان کے ساتھ شام سے آ رہا تھا۔ اور نفیر: مکہ

کا وہ بڑا قافلہ جو عتبہ بن ربیعہ کی سرکردگی میں اس قافلہ کی

حایت میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلتا تھا۔ جس کی بنا پر

غزوہ بدر پیش آیا۔ جو یہ و نفیر میں سے کسی میں شریک نہیں ہوا

اس کو عار دلانے کے لیے یہ مقولہ کہا گیا تھا۔

۱۲۱۵۔ مَهْمَا كَعِشْتَ تَرَهُ۔

(جبنا تو زندہ رہے گا دیکھے گا، ترہ میں بارِ وقفی ہے اور

ترہ کا مفعول محذوف ہے۔ اصل یہ ہے مَا مُمْتَا حَيًّا تَرَى

أَشْيَاءَ عَجَبِيَّةٍ۔ (جب تک زندہ رہے گا، عجائبات دیکھتا

رہے گا، حارث۔

۱۲۱۶۔ عِشْ تَرَهُ مَا لَمْ تَرَ۔

(زندہ رہہ، وہ دیکھے گا جو تو نے نہیں دیکھا)

۱۲۱۷۔ عِشْ رَجَبًا تَرَعْجَبًا۔

(رجب کے مہینے تک زندہ رہہ، عجائبات دیکھے گا، حارث اسی

عبادِ تعلیٰ نے اپنی زبان دراز بیوی کو طلاق دیدی تھی۔ عورت

نے جس شخص کو دوسری شادی کے لیے تیار کیا وہ ایک روز

حارث کو مل گیا تو حارث نے عورت کے بُرے حالات کی طرف

اشارہ کر کے کہا: رجب تک ٹھہر، پھر عجائبات دیکھنا۔ عدت کے

دیکھتا ہوں۔

۱۲۲۷۔ لَيْسَ لِعَيْنٍ مَّارَاتٌ۔

آنکھ کے لیے نہیں ہے جو کچھ اس نے دیکھ لیا،

۱۲۲۸۔ الْعَيَانُ لَا يُحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ۔

(آنکھوں دیکھی چیز بیان کی محتاج نہیں)۔ "عیان" راہِ بیاں۔

۱۲۲۹۔ عَيَّ صَامِتٌ خَيْرٌ مِنْ عَيَّ نَاطِقٍ۔

(خاموش عاجز بولنے والے عاجز سے بہتر ہے)

۱۲۳۰۔ أَذَلُّ الْعَيِّ الْإِحْتِلَاطُ۔

(غضب میں آنا عاجزی کی ابتلا ہے، یعنی دلائل سے عاجز انسان ہی

غضب ہوتا ہے۔ احتلاط: غصہ میں بھرنا۔ خشم آلود ہونا۔

۱۲۳۱۔ آغَبَى مِنْ بَاقِلٍ۔

(باقل سے بھی زیادہ اپنی مراد ظاہر کرنے سے عاجز، نورجیہ کے

ایک شخص باقل نے گیارہ درہم میں ایک ہرن خریدا۔ لے کر چلا تو کسی

نے ہرن کی قیمت پوچھی، اس نے ہرن چھوڑ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دس

اور زبان نکال کر گیارہ کا عدد بتایا۔ اور ہرن بھاگ گیا۔

(۰۰۰۰)

غ

۱۲۳۲۔ عَثَقَ خَيْرٌ مِنْ سَمِينٍ غَيْرِكُ۔

(بھٹاراد بلا غیر کے فریب سے بہتر ہے، اپنے لاغر پر قناعت کرو۔

اور دوسرے کے فریب کی طمع نہ کرو۔

۱۲۳۳۔ عَذَرَكَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْإِسَاءَةِ۔

(جس نے بائی گھٹ پٹھاری رہنمائی کی اس نے تم سے عذاری کی،

أَعَذَرُ مِنْ عَذِيرٍ۔

(جو ہر وقت اپنے مالک کا پانی جذب کرتا رہتا ہے اور کچھ دن بعد

خشک کر دیتا ہے،

۱۲۳۵۔ إِنَّ عَذَارَنَا ظَرِيرٌ قَرِيبٌ۔

آنے والی کل اس کے دیکھنے والے کے لیے قریب ہے) کل دونوں

یہ مثل فرادین اجدع کے شعر سے ماخوذ ہے، جو اس نے نعمان بن منذر

کے سامنے کہا تھا: فَإِنْ يَكُ مَذْرُؤُ هَذَا الْيَوْمِ الْوَلِيُّ: فَإِنَّ عَذَارَنَا

بِنَظَرِهِ قَرِيبٌ: اگر آج کے دن رُخ موڑ لیا ہے تو آئندہ کل اس

زمانہ کو ماہِ رجب تک تشبیہ دی گئی ہے۔ رجب حرامِ مہینہ تھا۔

یعنی اس مہینے میں جب وہ ختم ہوتا تو ہر ناک واقعات رد نما

ہوتے تھے، حارث کی مراد یہ تھی کہ عدت کے بعد جب تو اس

عورت کے ساتھ رہے گا تو اس کی معاشرت بد سے عجائبات کا

ملاحظہ کریگا۔

۱۲۱۸۔ عَيْشٌ قِنَعَاتُكَ مِلْكَ۔

(قانع ہو کر زندگی بسر کر، بادشاہ ہو جائیگا)

۱۲۱۹۔ الْعَيْشُ نُجْعَةٌ وَالْخَرْبُ خُدْعَةٌ۔

(زندگی روزگار کی طلب کا اور طرائفِ ظاہر فریب تدبیر کا نام ہے،

نَجْعَةٌ: خوراک طلب کرنے کے لیے جانا۔

۱۲۲۰۔ أَنْتَ مَرَّةٌ عَيْشٌ وَمَرَّةٌ بَحْشٌ۔

(تو کبھی عیش ہے اور کبھی لشکر، یعنی کبھی نفع اور کبھی ضرر یا کبھی میرے

بہار ہے اور کبھی میرے خلاف یا کبھی خوشحالی اور کبھی تنگ حالی میں۔

جیسے کہا جاتا ہے: الْيَوْمَ خَيْرٌ وَغَدًا أَمْرٌ۔

۱۲۲۱۔ عَيْنٌ عَرَفَتْ قَدَرَتْ قَدَرَتْ۔

(آنکھ نے پہچان لیا اور بھرائی) حقیقت کو دیکھتے ہی پالیا۔

۱۲۲۲۔ عَيْنُ الْهَوَى لَا تَصْدُقُ۔

(خواہشات کی آنکھ (نظر) سچی نہیں ہوتی،

۱۲۲۳۔ عَيْنُهُ قَوَارُءُ۔

(اس کی نظر ہی دانت دیکھ لینا ہے، قَوَارُءُ: چوپایہ کا منہ

کھول کر اس کے دانت دیکھے، مراد یہ ہے کہ ظاہر ہی سے خبیثت

باطن ظاہر ہے آزمانے کی ضرورت نہیں۔

۱۲۲۴۔ عَيْنُكَ عَبْرِيٌّ وَالْهَوَىٰ دُفِي دُفِي۔

(تیری آنکھ رونے والی ہے مگر قلبِ لہو و لعب میں ہے، عبری: رونے

والی، دُفِي: لہو و لعب، اس کی اصل دُفُو ہے۔ غُد کی طرح واؤ

حذف کر دیا گیا ہے (مگر مجھ کے آنسو)

۱۲۲۵۔ رَبِّ عَيْنٍ أَنْتَ مِنْ لِسَانٍ۔

(بہت سی آنکھیں زبان سے زیادہ چٹخوڑ ہوتی ہیں۔ انہی معنی میں ہے

لِسَانُ الْكَلَامِ مِنْ لِسَانِ الْمُقَالِ۔

۱۲۲۶۔ بَعِثْنِي تَرَانِي يَا جَدَّ مَيْلِي أَرَاكَ۔

(اے جیس جس آنکھ سے تو مجھے دیکھتا ہے اسی آنکھ سے میں تجھے

کے دیکھنے والے کے لیے نزدیک ہی ہے۔

۱۲۳۶۔ عَسَىٰ عَذْرَاءٌ لِّغَيْرِكَ۔

(مکن ہے آئندہ کل تیرے غیر کے لیے ہو، اس لیے آج کے کام کو کل پر نہ ٹال، شاید وہ تجھے کل کو نہ مل سکے۔)

۱۲۳۷۔ لِكُلِّ عَذْرَاءٍ طَعَامٌ۔

(ہر آئندہ کل کے لیے کھانا ہے، اللہ کے فضل پر توکل کرو۔)

۱۲۳۸۔ آغْرُ مِنْ سَرَابٍ۔

(سراب سے زیادہ دھوکہ دینے والا، پیسا سا اس کو پانی سمجھ کر دھوکا کھا جاتا ہے۔)

۱۲۳۹۔ آغْرُ مِنَ الْأَمَانِ (آرزوؤں سے زیادہ فریب دینے والا)

۱۲۴۰۔ آغْرُ مِنْ ظَنِّي مُقْمِرٍ۔

(چاندنی میں پھرنے والے ہرن سے زیادہ فریب کھایا ہوا، کیونکہ چاندنی رات میں ہرن چندھیا کر جلد شکار ہو جاتا ہے۔)

۱۲۴۱۔ وَكُلُّ غَرِيبٍ لِلْغَرِيبِ نَسِيبٌ۔ (مسافر کا قریب ہوتا ہے،

۱۲۴۲۔ مَنْ غَرِبَ النَّاسُ نَحْلُوهُ۔

(جو لوگوں کو چھانے کا لوگ اس کو چھان کر بھڑکی نکال دیں گے، جو لوگوں کو بڑا کیسا لوگ اس کو زیادہ بڑا بھلا کہیں گے۔)

۱۲۴۳۔ غَوَّثَانِ فَارٌّ بَكْوَا لَهٗ۔

(بھوکا ہے اس کے لیے کھانا تیار کر، اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے

جس پر ایسی حالت طاری ہو کہ وہ تمھارے کلام کی طرف توجہ ہی نہ کرے ایک آدمی سفر سے آیا تھا۔ اس کے گھر پر کا پیدا ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ وہ بھوک سے بیتاب تھا۔ کہنے لگا: میں بڑے کو کھاؤں یا

پیوں؟ بیوی نے کہا: غوثان فار بکوالہ۔ (بھوکا ہے، اس کے واسطے کھانا تیار کر، کھانا کھا چکا تو پوچھنے لگا کہ طلا اور اس کی

ماں کا کیا حال ہے؟ طلا ہرن کے بچے کو کہتے ہیں۔ اس نے استعارہ اپنے بچے کو کہا تھا۔ غوثان: بھوکا، ربک: گوندھنا مرکب کرنا۔

ربکہ: ایک خاص قسم کا کھانا۔

۱۲۴۴۔ آذَلُ الْغَرِّ وَأَحْوَقُ۔

(بہلی رٹاں نا تجربہ کا شکار ہوتی ہے، بار بار کے تجربے سے پیشگی

پیدا ہوتی ہے۔)

۱۲۴۵۔ أَغْشَمُ مِنَ السَّيْلِ۔ (سیلاب سے زیادہ ظالم،

۱۲۴۶۔ مَنْ عَصَبَ مِنْ لَأْشَى رَضِيَ مِنْ لَأْشَى۔

(جو آدمی اپنی چیز سے غضبناک ہو گا وہ اپنی چیز سے راضی بھی ہو جائے گا یا جو بے وجہ غصہ ہوگا، بے وجہ راضی بھی ہو جائیگا۔)

۱۲۴۷۔ غَضَبَ الْخَبِيلِ عَلَى اللَّجْجِ۔

(گھوڑوں کا غصہ لگاموں پر ہوتا ہے، بے فائدہ غصہ۔ یا غصہ

قریب ہی پر ہوتا ہے یا کمرور پر ہی ہوتا ہے)

۱۲۴۸۔ غَلَّ يَدًا مُطْلِقًا۔

(ہاتھ میں اس کے آزاد کرنے والے نے طوق ڈال دیا ہے،

مہصبت سے چھڑا کر احسان کا غلام بنالیا۔)

۱۲۴۹۔ إِذَا لَمْ تَغْلِبْ فَاخْذِبْ۔

(غالب نہ آ سکے تو حسن تدبیر سے کام کر،

۱۲۵۰۔ مَنْ غَالَبَ الْإِيَّامَ غُلِبَ۔

(جو زمانہ پر غالب آئیگی کو شش کریگا وہ مغلوب ہوگا)

۱۲۵۱۔ يَغْلِبُنِ الْكِتَامَ وَيَغْلِبُهُنَّ الْكَيْسَامُ۔

(عورتیں شریفوں پر غالب آتی ہیں اور کینے مردان پر غالب ہو جاتے ہیں،

۱۲۵۲۔ الْغَمَّاتُ ثُمَّ يَنْجَلِينَ۔

(اب سختیاں ہیں پھر جدا ہو جائیں گی، غمات: مہصبت ہمیشہ نہیں رہتی۔)

۱۲۵۳۔ غَنِمَ مَنْ سَلِمَ (جو بچ رہا، وہ غنیمت رہا،

۱۲۵۴۔ أَغْنَىٰ الصَّبَاحُ عَنِ الْمَصَبِاحِ۔

(صبح نے چراغ سے بے نیاز کر دیا،

۱۲۵۵۔ أَغْنَىٰ عَنِ الشَّيْءِ مِنَ الْأَقْرَمِ عَيْنُ الْمُشْطِ۔

(کسی چیز سے اس سے بھی زیادہ بے نیاز جتنا گنہ گنہ گئی سے،

۱۲۵۶۔ وَهَلْ يُغْنِي مِنَ الْجَدِّ ثَانٍ لَيْتَ۔

(کیا کاش کہنا حوادث سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ محض تنہا

حوادث سے نہیں بچا سکتیں۔)

۱۲۵۷۔ مَنْ لَمْ يُغْنِهِ مَا يُلْقِيهِ أَعْجَزَهُ مَا يُغْنِيهِ۔

(جس شخص کو کافی ہونے والی چیز نے بے نیاز نہیں کیا اس کو بے نیاز

کر نیوالی چیز عاجز کر دیگی، غنا اور مالدار کی حرص تھکا دیتی ہے۔)

۱۲۵۸۔ غِنَى النَّفْسِ أَفْضَلُ مِنْ غِنَى الْمَالِ۔

(نفس کی بے نیازی مالدار کی بے نیازی سے بڑھ کر ہے،

۱۲۵۹۔ إِنَّ الْغَنَى طَوِيلُ الدَّيْلِ مَيَّاسٌ۔

رجوان اور بھی ہیں لیکن مالک جیسے نہیں، مالک نویرہ بن حمزہ دہنی
مفسر ابن نژاہ میں سے، کار کا تھا جس کو حضرت خالد بن ولید نے
قتل کر دیا تھا، اس کا بھائی متم کو عرصہ تک اس کی موت کا شدید
سرج و غم رہا۔ لوگ نعرہ بیت کے طور پر دوسرے مقتول رجوانوں کا
ذکر کرتے تو متم کہتا: فتی دلا کا ایک، یعنی وہ رجوان تو ہے لیکن
میرے بھائی مالک جیسا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فضیلت تو مسلم
ہے مگر اس پر کسی اور کو بھی فضیلت حاصل ہے۔

۱۲۶۸۔ آتِیَ فَتَتَى قَتَلَهُ السُّدَّحَانُ۔

دکون سا رجوان ہے جس کو دھوئیں نے مارا ہو کسی عورت نے ایک
ایسے رجوان پر نوہ کرتے ہوئے کہا تھا جو دھوئیں سے مر گیا تھا۔ یعنی
مرنے والا سیدھا اور بے تدبیر تھا۔

۱۲۶۹۔ كُلُّ قَتَاةٍ بَابِهَا مُعْجَبَةٌ۔

(ہر دوشیزہ اپنے باپ کے ساتھ ناز کرتی ہے، ناز خریدار پر۔

۱۲۷۰۔ دُبْتُ قَرْحَةً تَعُوْدُ مَرْحَةً۔

دہشت سی خوشیاں رنج بن جاتی ہیں۔

۱۲۷۱۔ لَيْسَ الْفَرْسُ بِجُلْدٍ۔

دگھڑا اپنی جل (جھول) کی وجہ سے نہیں، گھوڑے کی تہمت جھول
کی خوبصورتی سے نہیں۔

۱۲۷۲۔ هُمَا كَفَوَسَيَّ وَهَانِ۔

دو دونوں ریس کے گھوڑوں کی طرح ہیں، ایک دوسرے سے
سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

۱۲۷۳۔ مَا كُلُّ فُرْصَةٍ تَمْنَالُ۔

دہر فرصت دوبارہ نہیں ملتی، موقعے بار بار نہیں ملتے۔

۱۲۷۴۔ أَفَرَطًا فَاسْقَطَ۔ (دوہ بہت بولا اس لیے غلطیاں زیادہ کیں،

جو بہت بولتا ہے غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔

۱۲۷۵۔ تَفَرَّقَ الْقَوْمُ أَيَّدَى سَبَا أَوْ آيَا دَى۔

(قوم پرانگندہ ہو گئی سب کے لشکر کی طرح)، ایسے منتشر و پرانگندہ ہوئے کہ
پھر اجتماع ہی نہ ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر سیلاب کا
غذاب بھیج کر اس کو غرق کر دیا اور ویران کر دیا تھا، سب اکثر یہی قبائل کا
مورث اعلیٰ تھا، اس ویرانی کے بعد سب اور اس کی قوم یہاں سے نکل
کر مختلف ادیا میں منتشر ہو گئی، بعض کا خیال ہے کہ ایدی سب، یا

(مالدار و امن دراز اور ناز سے چلنے والا ہے)، یعنی مال دار اپنی
تو نگری کو چھپا نہیں سکتا۔

۱۲۶۰۔ مَنْ غَابَ غَابَ نَصِيبُهُ۔

(جو غائب ہوا اس کا حصہ بھی غائب ہوا) غائب کو یاد رکھنا دلیل کرم ہے
کہنا جاتا ہے: أَقْصَى رَفِيقَةٍ لَمْ كَالْأَقْرَبِ (اس کا انتہائی دور افتادہ
رفیق اس کے لیے قریب ترین کی طرح ہے،

۱۲۶۱۔ الْغَيْبَةُ جُفْدُ الْعَاجِزِ۔

(پیٹھ پیچھے برائی عاجز کی طاقت ہے،

۱۲۶۲۔ كَالْمُسْتَغِيثِ مِنَ الرَّمْضَاعِ بِالنَّارِ۔

(اس شخص کی طرح جو سورج کی گرمی سے آگ کی طرف لے جانے،
معمولی تکلیف سے بچنے کے لیے بڑی مصیبت مول لے۔

۱۲۶۳۔ أَخْيَرَةُ وَجُبْنَا۔

(کیا غیرت بھی اور نامردی بھی، ایک شخص بزدلی کی وجہ سے اپنی قوم کو
دشمن سے ہٹے ہوئے چھوڑ کر بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ بیوی بھی دیکھ
رہی ہے، کھسیانا ہو کر بیوی کو مارنے لگا تو بیوی نے کہا:

أَخْيَرَةُ وَجُبْنَا (غیرت بھی اور بزدلی بھی)

۱۲۶۴۔ غَيْفٌ مِنْ فَيْفٍ۔

(دہشت میں سے گھوڑا، جیسے دریا میں سے چلو۔ غیف: کمی، نقص۔
فیف: زیادتی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے: بَرَضٌ مِنْ بَرَدٍ۔

۱۲۶۵۔ عِنْدَ الْغَايَةِ يُعَوِّفُ السَّبَقُ۔

(انتہا کے وقت سبقت معلوم ہوگی، یعنی سبقت ابتدا کی بہتری پر
نہیں بلکہ انتہا کی عمدگی پر موقوف ہے۔

ف

۱۲۶۶۔ قَتَلَ فِي الدَّرُودَةِ وَالْغَارِبِ۔

(اس کے کوٹان کے اوپر اور آگے بل دیا، ہلا چھٹلا کر راضی کر لیا۔
دُرُودَةُ: کوٹان کا بالائی حصہ، ہر چیز کی چوٹی، غَارِبُ: کوٹان کا اگلا
حصہ، نئے یا سرکش اونٹ کے نکیل ڈالنے کے لیے کوٹان سے ہلا کر
مانوس کیا جاتا ہے اور موقع پا کر نکیل ڈال دی جاتی ہے۔

۱۲۶۷۔ فَتَنِي وَلَا كَمَا لَيْتَ۔

آبادی سے مراد سب کے شکر ہیں جن کے ذریعہ وہ حمل کرتا اور لوٹ مار میں امداد لیتا تھا۔ آئیدی یا آبادی حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔

۱۲۷۶۔ مَنْ قَسَدَتْ بِطَانَتُهُ كَانَتْ كَمَنْ غَصَّ بِالْمَاءِ۔

جس کے اہل و عیال ہی بگڑ جائیں وہ اس کی طرح ہے جس کو پانی سے اچھو لگ جائے کہ اس کی کوئی تدبیر نہیں۔ کھانا حلق میں پھنس جائے تو پانی سے اتار لیا جاتا ہے لیکن جب پانی ہی سے اچھو لگے تو کیا تدبیر کی جائے۔

۱۲۷۷۔ أَفْسَدُ مِنَ السُّوْسِ۔

دکیرہ دگھن ڈالنے والا (کڑا) سے زیادہ فساد پیدا کرنے والا۔

۱۲۷۸۔ أَفْسَدُ مِنَ الْجَوَادِ (ٹڈی سے زیادہ فساد پیدا کرنے والا)

۱۲۷۹۔ أَفْسَدُ مِنْ أَرْضِيَّةٍ رَدِيكٍ سے زیادہ فساد پیدا کرنے والا

۱۲۸۰۔ قَسَا بَيْنَهُمُ الظُّرَبَانُ۔

دان کے درمیان ظربان نے گوز مار دیا، یعنی حوادث نے منتشر کر دیا۔

ظربان: کتے کے پلے سے قدرے بڑا، بدبودار اور بہت گوز مارنے والا

جانور ہے کہتے ہیں کہ وہ گوز کے سوراخ پر آگوز مارتا ہے تو وہ منتشر

ہو جاتے ہیں تو اس کو کھا جاتا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اوٹوں کے

گلابیں پہنچ کر گوز مارتا ہے تو وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔

۱۲۸۱۔ أَفْضَلُ مِنْ سَحَابٍ وَأَيْلٍ دَسْجَانٍ (وہ سے زیادہ فصیح)

۱۲۸۲۔ فَضْلُ الْفِعْلِ عَلَى الْقَوْلِ مَكْرُومَةٌ۔

قول سے عمل کی زیادتی بزرگی ہے، کہنے سے زیادہ کر دیکھنا بزرگی ہے۔

۱۲۸۳۔ فَضْلُ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ ذَنَاءَةٌ۔

قول پر قول کی زیادتی کینگی ہے، کہنے سے زیادہ کہنا کینہ پر ہے۔

۱۲۸۴۔ الْفَضْلُ لِلْمُبْتَدِئِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْمُقْتَدِئِ۔

رفیضیت ابتدا کرنے والے کے لیے ہے، خواہ پیروی کرنے والا

اس سے اچھا کر دکھائے

۱۲۸۵۔ أَفْضَلُ الْمَعْرُوفِ إِعَاثَةُ الْمَلْهُوْفِ۔

دہترین نیکی مصیبت زدہ کی فریاد کو پہنچانا ہے،

۱۲۸۶۔ لَا أَفْعَلُ كَذَا مَا أَنَّ السَّمَاءَ سَمَاءً۔ وَلَا أَفْعَلُهُ مَا أَنَّ

فِي السَّمَاءِ نَجْمًا۔ (میں ایسا نہیں کروں گا جب تک کہ

آسمان آسمان ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا جب تک کہ

آسمان میں کوئی ستارہ ہے، یعنی کبھی نہیں کروں گا۔

۱۲۸۷۔ فَكُنْتُ كَفَافِي عَيْنِيهِ عَمَدًا۔

(میں اس شخص کی طرح ہو گیا جو اپنی آنکھیں عدا پھوڑ ڈالے)

اور خطرہ کو نہ دیکھا۔ شاعر نے اپنی بیوی نوار کو طلاق دے دی تھی۔

اور بعد میں نام ہوا تو چند اشعار کہے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ

فَكُنْتُ كَفَافِي عَيْنِيهِ عَمَدًا بِفَا ضَمِّ لَافٍ يَنْفَعُ كَذَا نَسَاءً۔

(میں عدا آنکھیں پھوڑنے والے کی طرح ہو گیا اور وہ ایسا ہو گیا

کہ اس کے لیے اب دن روشن نہ ہوگا)

۱۲۸۸۔ خَيْرُ الْفَقْهِ مَا حَاضَرَتْ بِهِ۔

(بہترین علم وہ ہے جس کے ذریعے تو ضرورت کے وقت جواب دے سکے)

۱۲۸۹۔ لَا تُعْكَرُ قَلْبَهَا مَدِيرٌ۔

(نہ فکر کر کیونکہ اس کا تدبیر کرنے والا ہے) کار ساز ما ب فکر کار ما۔

۱۲۹۰۔ لَا يَفْعُلُ الْحَدِيدُ إِلَّا الْحَدِيدُ۔

(لوہے کو لوہا کند کرتا ہے)

۱۲۹۱۔ فَكَمْ تَسْبِيحٌ وَيدٌ تَذْبِيحٌ۔

(منہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور ہاتھ قتل) ”زبان بھی اور بخل میں چھری“

۱۲۹۲۔ فِي فَيْئِ مَاءٍ وَهَلْ يَنْطَلِقُ مَنْ فِي فَيْئِ مَاءٍ۔

دیر سے منہ میں پانی ہے اور کیا وہ شخص بوتل ہے جس کے منہ میں

پانی ہو)

۱۲۹۳۔ يُفْعَلُ مَا فِي الْقُدُورِ وَيَبْقَى مَا فِي الصُّدُورِ۔

(جو ہانڈیوں میں ہے وہ فنا ہو جائیگا اور جو سینوں میں ہے وہ

باقی رہے گا) ”مال فانی علم باقی“

۱۲۹۴۔ كَمْ يَفْعَلُ مَنْ كَمْ يَمُتُ۔

(جو کم نہیں کرتا وہ فوت نہیں ہوا، مگر تو نہیں کیا، کبھی نہ کبھی ہاتھ لگے گا۔

۱۲۹۵۔ أَلْفَايْتُ لَا يَسْتَذِيرُ۔

(فوت شدہ پھر نہیں مل سکتا، سو گیا، اسی محنت میں ایک شعر ہے کہ

فَا ضَمِّتُ لَا أَطْبَعُ رَوَّالِي مُضَى كَمَا لَا يَرُدُّ الدَّرَرُ حَالِيہ۔

(میں گزرتے ہوئے کو نہیں ٹٹا سکتا جیسے کہ دودھ دہننے والا دودھ

کو تھنوں میں نہیں ٹٹا سکتا،

۱۲۹۶۔ أَخُوْتُ مِنْ أَمْسٍ (کل گذشتہ سے زیادہ فوت شدہ)

۱۲۹۷۔ مُقَوِّمٌ عُلُقٌ شَتَا بَالِيًا۔

(بیابان طے کرنے والے نے بوسیدہ مخیزہ لٹکایا ہے، حیرت سامان

آیت قرآنی: وَكَفَّلْنَا فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةً۔ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔

۱۳۰۶۔ مَقْتَلُ الرَّجُلِ بَيْنَ فَكَيْهِ۔

(آدمی کی قتل گاہ اس کے دونوں جھڑوں کے درمیان ہے، زبان درازی بسا اوقات قتل کا سبب ہوتی ہے۔

۱۳۰۷۔ قَدَّتْ سَيُّوْرَةٌ مِنْ اَرْبَابِكِ۔

(اس کے نسبی تیری کھال سے کاٹے گئے تھے یعنی ایک جیسے ہیں۔

۱۳۰۸۔ مَنْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّ اَمْسٍ اَوْ تَطْيِیْنِ عَيْنِ الشَّمْسِ؟۔

رکذشتہ کل کے لوٹانے یا چشمہ آفتاب پر خاک ڈالنے کی قدرت کون رکھتا ہے؟

۱۳۰۹۔ اِنَّ الْمَقْدَرَةَ تَذْهَبُ الْحَفِیْظَةَ۔

(قدرت پانا غضب کو زائل کر دیتا ہے، کسی قریشی نے اپنے دشمن پر قابو پانے کے بعد انتقام سے درگزر کرتے ہوئے کہا تھا۔

حقیظہ: غضب و غصہ۔

۱۳۱۰۔ اِذَا قَدَّمَ الْاِخَاءُ سَمْعَهُ الشَّنَاعُ:

(جب بھائی چاراپرانا ہو جاتا ہے تو تعریف بُری معلوم ہوتی ہے،

۱۳۱۱۔ یُقَدِّمُ رَجُلًا دَیُّوْرًا اُخُوْرًا۔

(ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور دوسرا پیچھے ہٹاتا ہے، معاملات میں متردّد ہے۔

۱۳۱۲۔ لَیْسَ الْقَوَادِمُ كَالْخَوَارِفِ۔

(بڑے آخر بڑے ہیں، بازوؤں کے بڑے پر چھوٹے پروں کی طرح نہیں ہوتے۔ قَوَادِمُ یا قَدَامِی: بازو کے اگلے حصے کے بڑے پر خَوَارِفِ: بازو کے چھوٹے پر۔

۱۳۱۳۔ لِكُلِّ قَدِیْمٍ حُرْمَةٌ: دہر پرانی چیز کی ایک حرمت ہوتی ہے،

۱۳۱۴۔ لَیْسَ لِمَا قَدَّرْتُ بِهِ الْعَیْنُ شَمْسٌ۔

(جس چیز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں)

۱۳۱۵۔ اَقْرَبُ مِنْ جَبَلِ الْوَرْدِ رُشْدُ رُكٍّ سَیِّئَةٍ قَرِیْبٍ۔

۱۳۱۶۔ لَا قُرْبَةَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ۔

(خوش اخلاقی سے بہتر تقرب کا کوئی ذریعہ نہیں)

۱۳۱۷۔ اِذَا قَرِحَ الْعُتْنَانُ بَكَتِ الْعُیُنَانُ۔

(جب دل زخمی ہوتا ہے تو آنکھیں روتی ہیں تقریباً اس مثال کے

پر خطرناک مہم سر کرنے چلا ہے۔ فَوَزَّ الرَّجُلُ: بیابان طے کرنے کے لیے چلا۔ شَقٌّ: مشکیزہ۔

۱۲۹۸۔ اَفَقُّ قَبْلَ اَنْ یُّحْضِرَ ثَرَاكُ۔

(ہوش میں آجاتیں اس کے کہ تیری قبر کھودی جائے) موت سے پہلے یا بُرّا انجام دیکھنے سے پہلے ہوش میں آجاء۔

۱۲۹۹۔ اَقْوَاهُمَا نَجَا سَهْمَا۔

(ان کا منہ ان کے امتحان کی جگہ ہے) گفتگو باطن کا پتہ دیتی ہے۔

جیسے اونٹ کا اچھا چارہ اس کی صحت و صلاحیت کی دلیل ہے اس کو ٹھوٹنے کی ضرورت نہیں۔ جِسٌّ: چھو کر اور ٹھول کر دیکھنا۔

(۱۰۰)

ق

۱۳۰۰۔ قُبَّةُ نَجْرَانَ۔

(نجران کا قبہ) جیسے "بسم اللہ کا گنبد"۔ مین کے ایک شہر نجران میں نہر کے کنارے ایک قبہ تھا جس کو عبید بن جراح بھی کہتے تھے۔ لوگ اس کو

مبارک سمجھتے اور اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے، جب کوئی اس میں پناہ لیتا تو اس کو پناہ اور آرام مل جاتا تھا۔

۱۳۰۱۔ كَالْقَائِسِ الْعِجْلَانِ۔

(جلد باز آگ لینے والے کی طرح) جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں جلدی کرے۔

۱۳۰۲۔ كَالْقَائِضِ عَلَى الْمَاءِ۔

(پانی کو مٹھی میں پکڑنے والے کی طرح) حاصل نہ ہونے والی چیز طلب کرنے والا۔

۱۳۰۳۔ اِنَّهُ لَقَبْصَتُهُ رُقْصَتُهُ۔

(وہ کبھی پکڑنے والا اور کبھی چھوڑنے والا ہے)

۱۳۰۴۔ قَتَلْتُ اَرْضَ جَاهِلِكُمْ۔

(زمین نے اپنے سے بیخبر کو مار ڈالا ہے) ایسا کام اختیار کرنے والے کے لیے کہا جاتا ہے جس کا اسے کچھ پتہ نہ ہو۔

۱۳۰۵۔ اَلْقَتْلُ اَنْفَى لِلْقَتْلِ۔

(بعض قتل زیادہ روکنے والے ہیں قتل سے) قَتْلُ لِبَعْضِ اَحْيَاءٍ وَبَعْضٍ کے ہم معنی ہے، لیکن ان مثالوں سے زیادہ جامع اور بلیغ ہے،

ہم معنی ہے: "الْبَعْضُ شَيْءٌ مِنَ الْعَيْنَانِ" تمہارے سامنے بعض کو آنکھیں ظاہر کر دیتی ہیں۔

۱۳۱۸۔ اِذَا مَا الْقَارِظُ الْعَنَزَىٰ اَبَا۔

(جب عنزی قارظ (سلم) کے پتے چھنے والا واپس آجائے) یعنی واپسی کی امید نہیں۔ دوسرا مصرع یہ ہے: "فَرَجَى الْخَيْرَ وَانْتَظَرَىٰ اِيَّايَ"۔ (تو خیر کی امید رکھ اور میری واپسی کا انتظار کر، رہم بن عام عنزی سلم کے پتے لینے گیا اور پھر کوئی خبر نہ ملی۔

۱۳۱۹۔ فَلَا تَكْفُرْ عِصَا الْعَصَا۔

(فلاں کے لیے عصا نہیں کھٹکھٹایا جاتا، یعنی اس سے غلطی ہی نہیں ہوتی جس پر متنبہ کیا جائے۔ عام بن النظر عدوانی کو اپنے سٹھیا جانے کا احساس ہوا تو اس نے اپنی راک سے کہا کہ جب کوئی حکم کرتے وقت میرے فتور عقل کی کوئی بات محسوس کرے تو عصا سے ڈھال کو کھٹکھٹا دیا کر۔

۱۳۲۰۔ قَوَيْتُكَ سَهْمُكَ يَخْطِئُ وَيُصِيبُ۔

(نیر اساتھی تیرا تھے جو کبھی خطا کرتا ہے اور کبھی نشانہ پر لگ جاتا ہے) غلطی پر چشم پوشی کرنی چاہیے۔

۱۳۲۱۔ اَقْصَىٰ مِنْ صَخْرٍ۔ (چٹان سے زیادہ سنگدل)

۱۳۲۲۔ فَكُشِرَتْ لَهُ الْعَصَا۔

(میں نے اس کے واسطے عصا کو چھینا، مطلع کیا۔

۱۳۲۳۔ اَقْصَرَ لَمَّا ابْصَرَ۔

(جب دیکھا تو باز رہ گیا، برے انجام کو دیکھ کر باز رہنے کے لیے کہا جاتا ہے۔) اَقْصَرُ اَقْدَرُ ہوتے ہوئے کسی چیز سے باز رہنا۔

۱۳۲۴۔ مَا اَقْصَرَ اللَّيْلُ عَلَى الرَّافِدِ۔

(سونے والے پر رات کتنی چھوٹی ہوتی ہے،

۱۳۲۵۔ كُلُّ مُقْتَصِرٍ عَلَيْهِ كَاثٍ (جس چیز پر کثرت کا رہا جائے وہ کافی ہے،

۱۳۲۶۔ يَكُلُّ قَضَاءً جَالِبٌ وَيَكُلُّ دَرَّ حَالِبٌ۔

(ہر حکم کا کوئی موجب ہوتا ہے اور ہر دودھ کا کوئی دہننے والا)

۱۳۲۷۔ قَطَعْتَ جَهَنَّمَ قَوْلَ كُلِّ خَطِيبٍ۔

(جہنم نے ہر بولنے والے کی بات کاٹ دی) ختم کر دی۔ (دو فریقوں

میں قتل کے کسی معاملہ میں صلح کی گفتگو ہو رہی تھی۔ جہنم نامی

لوہی نے آکر اطلاع دی کہ مقتول کے وارثوں میں سے کسی نے

قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا: قَطَعْتَ جَهَنَّمَ قَوْلَ كُلِّ خَطِيبٍ۔

۱۳۲۸۔ اِذَا قَطَعْنَا عَمَّا بَدَا عَلَمٌ۔

(جب ایک پہاڑ کو ہم نے طے کر لیا تو دوسرا پہاڑ ظاہر ہو گیا، ایک مشکل طے کی تھی کہ دوسری پیش آگئی۔

۱۳۲۹۔ تَقَطَّعُ اَعْنَاقُ الْوَجَالِ الْمَطَامِعُ۔

(لاچ لوگوں کی گردنیں کٹوا دیتی ہے)

۱۳۳۰۔ مَنْ قَتَلَ ذَلَّ وَمَنْ اَمَرَ قَتَلَ۔

(جو شخص کم ہوا ہے وہ ذلیل ہو گیا اور جو ذلیل ہو گیا اس نے کند

کر دیا) یعنی جس کے مددگار کم ہوئے وہ ذلیل ہوا اور میرے مددگار

زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ دشمنوں کا زور توڑ دیتا ہے۔

۱۳۳۱۔ لَا قَلِيلٌ مِنَ الْعَادَاةِ وَالْاِحْنِ وَالْمَرْحِ۔

(دشمنی، کینہ اور مرض ذرا سی چیز بھی کم نہیں)

۱۳۳۲۔ قَلْبٌ لَهُ ظَهَرَ الْيَمْرِجَتِ۔

(اس کی طرف ڈھال کی پشت پھیر دی) دیرینہ محبت کا لحاظ

اٹھا دیا۔

۱۳۳۳۔ الْقَلْبُ مِصْحَفُ الْبَصَرِ۔ (دل بینائی کی کتاب ہے)

۱۳۳۴۔ مِنَ الْقَلْبِ اِلَى الْقَلْبِ۔

(دل سے دل کی طرف) "دل سے دل کو راہ ہے"

۱۳۳۵۔ فِي بَعْضِ الْقُلُوبِ عِيُونٌ۔ (بعض دلوں میں آنکھیں ہوتی ہیں،

۱۳۳۶۔ الْقُلُوبُ تَجَاوِزُ الْقُلُوبَ۔ (دل ہی دل کی مکافات کرتے ہیں،

۱۳۳۷۔ اَقْلَمُ شَوْكِكَ بَيْدِكَ۔ (اپنے کانٹے کو اپنے ہاتھ سے نکال،

۱۳۳۸۔ فِي الْقَمَرِ ضِيَاءٌ وَالشَّمْسُ اَصْوَعُ مِنْهُ۔

(چاند میں روشنی ہے لیکن سورج اس سے بھی زیادہ روشن ہے)

عام خوبی میں شریک ہیں مگر ایک بڑھ کر ہے۔

۱۳۳۹۔ لَا تَقْنَنَنَّ مِنْ كُلِّ سُوءٍ جَرَّوْا۔ (کٹے کا پتلا مت پال،

۱۳۴۰۔ كُلُّ قَاتِلٍ مِنْ قُتُولٍ۔ (ہر چور ہانڈے سے نکلتا ہے) جیسا

انڈا ویسا ہی چور۔

۱۳۴۱۔ مَنْ قَالَ مَا لَا يَنْبَغِي سَمِعَ مَا لَا يَشْتَهُی۔

(جو شخص نامناسب بات کہے گا وہ نام خوب باتیں سنے گا،)

۱۳۴۲۔ لَوْ قُلْتُ تَمْرَةً لَقَالَ جَمْرَةً۔

(جو زیادہ بولے گا کو اس کرے گا) اہواز: بیہودہ باتیں کرنا۔

۱۳۵۶۔ تَكْثُرُ الْحَوَّ وَتُخْطِئُ التَّفْصِيلُ۔

(توبہ کا تپا ہے مگر جوڑ پر غلطی کھاتا ہے) سخت کوشش ہے مگر عین موقع پر غلطی کر جاتا ہے۔

۱۳۵۷۔ مِنْ كَثْرَةِ السَّاحِلَيْنِ عَرَفَتِ السَّيْفَيْنَةُ۔

(طاحون کی کثرت سے کشتی ڈوب گئی)

۱۳۵۸۔ إِذَا كَانَ لَكَ الْكَثْرَى فَكَبِّهَا بِنِي عَنْ أَيْسَرَى۔

(میرا بہت بھاری لیے وقف ہے تو میرے ٹھوٹے سے درگزر کرو)

(زیادہ بھائیوں کے مقابلے میں ٹھوٹی بہت غلطی برداشت کرو۔)

۱۳۵۹۔ اِلْسْكَثَارُ كَحَا طِبْ كَيْلُ۔

(زیادہ بولنے والی رات کو کٹریاں جمع کرنے والے کی طرح ہے)

(رات میں کٹریاں چنے والا کبھی سانپ کو کٹری سمجھ کر اٹھا لیتا ہے)

(اور نقصان اٹھاتا ہے۔)

۱۳۶۰۔ اَلْكَذِبُ بِنِي اَلْكَذِبُ لَكَ۔

(تو میرے لیے سچی باتیں تیرے لیے سچی باتیں کرنا؛ کدو کا دوش کرنا۔)

۱۳۶۱۔ اَلْكَذِبُ بِالنَّفْسِ إِذَا أَحَدٌ تَحْتَمَا۔

(جب اپنے دل سے باتیں کرے تو اس سے جھوٹی باتیں بنائی جاتی ہیں)

۱۳۶۲۔ اَلْكَذِبُ دَاعُو الصَّدَقِ شَفَاعَةً۔

(جھوٹ بیاری ہے اور سچ شفا ہے۔)

۱۳۶۳۔ اِنْ كَذَبْتَ نَبِيَّ فِصْدَقِ اَلْحَقِّ۔

(اگر جھوٹ نے نبی کی توبہ تو سچ درجہ اولیٰ نجات دینے والا ہے)

۱۳۶۴۔ اَلْكَذِبُ مِنْ يَلْمِجٍ۔ (سراب سے زیادہ جھوٹا)

۱۳۶۵۔ اَلْكَذِبُ اَحَدٌ وَثَلَةٌ مِنْ اَسِيرٍ۔

(قیدی سے زیادہ جھوٹ روایت کرنے والا۔)

۱۳۶۶۔ اَلْكَذِبُ مِنَ الْاَحْبَدِ۔

(قیدی سے زیادہ جھوٹا) جو نجات پانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔

اَحْبَدٌ: گرفتار۔

۱۳۶۷۔ اَلْكَذِبُ مِنْ دَبِّ وَدَرَجٍ۔

(دونوں آدمیوں میں سب سے زیادہ جھوٹا) دَبِّ: زمین پر چلنا۔

وَدَرَجٌ: ختم ہو گیا۔ یعنی زندہ و مردہ۔

۱۳۶۸۔ اِنْ كُنْتُ كَذُوبًا فَكُنْ كَوْرًا۔

(اگر میں کجگوں تو وہ انگارہ کے گا) میں دن کو دن گھوں گا تو وہ

رات کے گا

۱۳۶۹۔ قَدْ قِيلَ ذَلِكَ اِنْ حَقَّ وَ اِنْ كَذَبَا۔

(یہ بات کوئی یا جی، سچ ہو یا جھوٹ)

۱۳۷۰۔ اِذَا قَالَتْ خَدَامُ فَصَدَّ قُوَّهَا: قَاتَ اَلْقَوْلَ مَا قَالَتْ خَدَامُ۔

(جب خدام کوئی بات کہے تو اس کی تصدیق کرو۔ کیونکہ قول وہی

درست ہے جو خدام نے کہا، ہر مہر ع مثل ہے۔ یعنی اس کی

سچائی مسلم ہے۔)

۱۳۷۱۔ اَلْقَوْلُ يَنْفَعُ مَا لَا تَنْفَعُ اَلْبَرْ۔

(بات اس چیز میں ہی سوراخ کر دیتی ہے جس کو سنی نہیں چھید سکتی)

۱۳۷۲۔ مَا كُلُّ قَوْلٍ لَهُ جَوَابٌ (ہر بات کا جواب نہیں ہوتا)

۱۳۷۳۔ رُبُّ قَوْلٍ اَشَدُّ مِنْ صَوْلِ۔

(بہت سی باتیں حملے سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہیں)

۱۳۷۴۔ وَبَعْضُ الْقَوْلِ يَنْدُ هَبٌ فِي الرِّيَا ح۔

(بعض باتیں ہوائیں اڑ جاتی ہیں)

۱۳۷۵۔ اِذَا قَامَ بِكَ الشَّرُّ فَاقْعُدْ۔

(جب شر تجھے کھڑا کرے تو تو بیٹھا رہ) ہر حال میں بردبار رہ۔

۱۳۷۶۔ يَكُلُّ مَقَامٌ مَقَالٌ۔

(ہر جگہ کے مناسب ایک گفتگو ہوتی ہے) ہر بات کا موقع ہوتا ہے۔

۱۳۷۷۔ هَلْ يَسْتَعِينُ الْبَطْلُ وَالْعَوْدُ اَعْوَجْ۔

(کیا سایہ سیدھا ہو سکتا ہے جبکہ کڑی ٹیڑھی ہو۔)

۱۳۷۸۔ قِيَمْتُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُهُ۔

(ہر شخص کی قیمت وہ ہے جو اسے اچھا بناتی ہے)

(۲۰)

ل

اَلْكَتَبُ مِنَ الْبُيُوتِ۔

۱۳۷۹۔ (لبہ سے زیادہ معر) میدان سات گھوں میں سے ایک جن کو قحطان بن

عادل نے منتخب کیا تھا اور جو ایک طویل زمانہ تک زندہ رہا۔

۱۳۸۰۔ اَلْكَتَمُ مِنَ الْاَرْضِ۔ (زمین سے زیادہ چھپانے والا)

۱۳۸۱۔ مَنِ اَكْثَرَ اَهْجَرَ۔

(اگر تو چوٹا ہے تو یاد رکھنے والا بھی بن) کیونکہ جھوٹا بھول جاتا ہے۔

۱۳۶۹۔ کَانَ كُنُوزًا عَا قَصَارًا اِذْ رَا عَا۔

وہ کراخ تھا پھر گزرنے لگا، کراخ: گھر کے قریب کا حصہ، یعنی ذیل قوی اور معزز بن گیا۔

۱۳۷۰۔ سَحْتَامٌ يَتَكَوَّرُ وَلَا تُنْقَعُ۔

رتوک تک پانی پیتا رہے گا اور سیر نہ ہوگا، حرص سے باز نہیں آئے گا۔

کراخ: منہ ڈال کر بانی پینا۔ نَقَعَ: سیراب ہونا۔

۱۳۷۱۔ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ۔

(جس شخص کو اپنا نفس عزیز ہوگا اس کو اپنی شہوت حقیر معلوم ہوگی) خواہشات کی پیروی عزت نفس کے خلاف ہے۔

۱۳۷۲۔ اِسْتَكْرَمَتْ قَارِيَةُ۔

(تو نے شریف الاصل کو) جسے امضا باندھ لے، یعنی قدر کر۔

۱۳۷۳۔ اَلْكُرْمُ مِنْ حَاوِيَةٍ طَيِّئَةٍ (حَاوِيَةُ طَيِّئَةٍ سے زیادہ صاحب کرم)

۱۳۷۴۔ اَلْكُوَيْبُ اِذَا رَلِمَ عَلَى الطَّيْلِ تَبَا۔

(شریف آدمی کو جب ظلم بر مائل کیا جائے تو وہ دور ہو جاتا ہے)

۱۳۷۵۔ مُكْرَاٌ اَخْوَاكَ لَا بَطْلُ۔

(تیرا بھائی مجبور کیا گیا ہے۔ یہ سلوان نہیں ہے، جرات سے نہیں مجبوری سے کر رہا ہے۔

۱۳۷۶۔ اَلْكُسْبُ مِنْ نَمَلٍ۔

(چونٹی سے زیادہ کمانے والا جو ہر وقت ذخیرہ کر لے گی وہیں لگی رہتی ہے)

۱۳۷۷۔ اَلْكُسْبُ مِنْ ذَنْبٍ۔

(بھیرے سے زیادہ طلبے نوالا جو ہمیشہ شکار کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے)

۱۳۷۸۔ اَلْكُسْفَا وَ اِمْسَاگَا۔

(کیا ترشروی اور بخل دونوں؟) ان میں سے ہر برائی لوگوں کو دور رکھنے کے لیے کافی ہے۔

۱۳۷۹۔ اَكْنَسَى مِنْ بَصَلَةٍ۔

(پیاز سے زیادہ لباس پہنے والا پیاز کی طرح تہ بہ تہ لباس پہنے ہوئے ہے)

۱۳۸۰۔ كَعْبَةٌ نَجْوَاكُ۔

(میں کا قدیم ترین شہر) حجاز میں لوگوں کی زیارت گاہ۔ ایک کعبہ تھا جو برباد ہو گیا۔ زوال اور بربادی کے لیے کہا جاتا ہے۔

۱۳۸۱۔ كَالْكُعْبَةِ تَزَاوَدَا وَلَا تَزُوْا۔

کعبہ کی طرح ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے) وہ کسی کی زیارت کو نہیں جاتا۔

۱۳۸۲۔ هَذَا اَلْكَعْكُ مِنْ ذَاكَ اَلْعَجِيْنِ (یہ کیکی اسی آٹے کا تو ہے)

۱۳۸۳۔ اَلْكَفُّ مُعَذِّبَةٌ لِنَفْسِ الْمُتَعَصِّرِ۔

(کفران نعمت منعم کے نفس کو فاسد کرنے والا ہے، اگر سے مراد کفران نعمت، ناشکری محسن کو بد دل کر دیتی ہے۔ مجتنب: باعث فساد۔

۱۳۸۴۔ اَلْمَقَالَةُ نَدَامَةٌ (کفالت اور ضمانت موجب پشیمانی ہے)

۱۳۸۵۔ كَفَى الْمَرْءَ قَضَاءً اَنْ تُحَدَّ مَعَائِبُهُ۔

(آدمی کے فضل کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کے عیب شمار ہو جائیں کیونکہ انسان میں بے شمار عیب ہوتے ہیں۔

۱۳۸۶۔ يَكْفِيكَ وَمِنَّا لَا تَلْزِي مَا قَدْ تَلْزِي

(تمہارے لیے دیکھی ہوئی چیزیں اُن دیکھی چیزوں کی طرف سے کافی ہیں، جو دیکھ وہی عبرت کے لیے کافی ہے۔

۱۳۸۷۔ مَنْ كَانَ لَكَ كُذْبًا كَانَ عَلَيْكَ كُذْبًا۔

(جو شخص پورا تمہارے لیے ہے اس کا پورا بوجھ تم پر ہے، اس کے مصارف برداشت کرنے ہوں گے۔ کل: بوجھ۔

۱۳۸۸۔ وَالْكَلُّ لِحُمُولٍ عَلَى ذِي الْفَضْلِ۔

(بوجھ اہل ثروت پر ہی ڈالاجاتا ہے)

۱۳۸۹۔ اَلْكَلُّ كَذِبٌ بَيِّنٌ تَبَاهُ۔

(دہرکتا اپنے دروازہ پر بھونکنے والا ہے) اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے

۱۳۹۰۔ اَلْكَذِبُ كَلْبٌ تَوَطَّقْتُهُ ذَهَبًا۔

(کتا کتا ہی رہیگا خواہ تاس کے گلے میں سونے کا طوق ڈال دے۔

۱۳۹۱۔ كَلْبٌ عَيْتٌ خَيْرٌ مِنْ اَسَدٍ رَيْضٍ۔

(گھونسنے اور تلاش کرنے والا کتا شکار پر بیٹھے ہوئے شیر سے بہتر ہے) عس: طلب کرنا۔ طواف کرنا۔

۱۳۹۲۔ كَلَفْتَنِي مَخْرَ الْبُعُوضِ۔

(تو نے مجھے پھر کے منخر کی تکلیف دی ہے) چیل کا موت لانے کی زحمت دی ہے۔

۱۳۹۳۔ كَلَفْتُ اِلَيْكَ عَوَى الْقَوْبَةِ۔

(میں نے تیری طرف آنے میں مشکیزہ کے پسینے کی تکلیف اٹھائی۔) اتنی زحمت اٹھائی جتنی مشک اٹھانے میں ہوتی ہے۔

۱۳۹۴۔ لَيْسَ مَعَ اَلشَّكْلِ تَطَرُّفٌ۔

۱۲۰۸۔ لَحْظًا أَصْدَقُ مِنْ لَفْظٍ (لفظ سے زیادہ سچی بات ہے)

۱۲۰۹۔ لَا تُحَقِّقْ حَوَاقِثَهُ بِلَدِّ وَاقِعِهِ۔

میں اس کے مدد کو ٹھوڑی سے ملا دوں گا، سر پاؤں ایک کے رکھ دوں گا، حقائق، وہ اعضا جو بیٹ میں کھانے کو روکتے ہیں، مدد کو کتے ہیں۔ ذواقین: ٹھوڑی اور اس کے نیچے کا حصہ۔

۱۲۱۰۔ إِذَا تَلَّاحَتْ اَلْخُصُوفُ تَسَافَهَتِ اَلْحُلُومُ۔

جب دشمن گالی گلوچ پر اتر آئے تو برباد بھی احسن بن جاتے ہیں قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے۔

۱۲۱۱۔ مَنْ لَاحَاكَ فَقَدْ عَادَاكَ۔

جس نے تجھے برا بھلا کہا اس نے تجھ سے دشمنی کی، الملاحاة: ایک دوسرے کو طامت کرنا۔ برا بھلا کہنا۔

۱۲۱۲۔ تَلَدُّغُ الْعُقُوبِ وَتَصْيِيغُ

دیکھو ٹنک بھی مارتا ہے اور جینتا بھی ہے، صاء: چوبے، انچھو، خنزیر اور ان جیسی چیزوں کا جیننا۔ آواز نکالنا۔ اس ظالم کے لیے کہتے ہیں جو خود ہی فریاد بھی کرے۔

۱۲۱۳۔ اَلَّذِي مِنَ الْغَنِيمَةِ اَبَارَدَةٌ۔ (غنیمت بارود سے زیادہ لذت)

غنیمت بارود: بغیر زحمت حاصل ہونے والی غنیمت۔

۱۲۱۴۔ اَلَّذِي مِنَ الْمُنَى (آرزوؤں سے زیادہ لذت)

۱۲۱۵۔ اَلَّذِي مِنَ الْمُسْرَعِ مِنْ خَلْقِهِ۔

دسایہ سے بھی زیادہ آدمی کے ساتھ لازم رہنے والا)

۱۲۱۶۔ اَلَّذِي مِنَ الْيَمِينِ لِلْيَمِينِ۔

دائیں کے لیے دہستے سے بھی زیادہ لازم)

۱۲۱۷۔ اَلَّذِي مِنَ زَرْ لِعُودَةٍ۔

اس سے بھی زیادہ لازم جتنا کہ شیش کا ج کے لیے لازم ہوتا ہے)

۱۲۱۸۔ لِسَانُ الْحَالِ اَبَيْنُ مِنْ لِسَانِ الْمَقَالِ۔

زبان حال زبانِ حال سے زیادہ واضح ہے،

۱۲۱۹۔ لِسَانُ مِنْ رُطْبٍ وَيدٍ مِنْ خَشَبٍ۔

زبان تر بھور ہے اور ہاتھ کڑی کبے، زبان شیریں مگر ہاتھ بے فیض۔

۱۲۲۰۔ لِسَانُ الْمَذْمُوعِ مِنْ خَدَمِ الْفُؤَادِ۔

مردک زبان دل کے خدام میں سے ہے)

۱۲۲۱۔ اَللِّسَانُ مَرْكَبٌ ذُلُولٍ۔

(تکلف کے ساتھ ظرافت نہیں ہوتی)

۱۳۹۵۔ كَلَامُ اللَّيْلِ يَبْحُو كَالنَّهَارِ۔ (رات کی بات کو دن مٹا دیتا ہے)

۱۳۹۶۔ كَلَامٌ كَالْعَسَلِ وَفِعْلٌ كَالْأَسَلِ۔

(کلام شہد کی طرح اور کام نیزے کی طرح)

۱۳۹۷۔ كَلَامٌ لَيِّنٌ وَظَلَمٌ بَيِّنٌ۔ (کلام نرم اور ظلم کھلا ہوا)

۱۳۹۸۔ كَلَامٌ لَيِّنٌ فِي قَفْسٍ۔ (اس کا کلام پنجرہ میں ہوا کی طرح ہے)

۱۳۹۹۔ يَكُلُّ كَلَامٌ جَوَابٌ۔ (ہر کلام کا جواب ہوتا ہے)

۱۴۰۰۔ رَبِّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً۔

رہبت سے کلمے نعمت سلب کر دیتے ہیں)

۱۴۰۱۔ لَوْ كُوْنَتْ عَلَى دَاءٍ لَهْ أَكْرَهٌ۔

اگر مجھے بیماری کی بنا پر داغ دیا جاتا تو میں ناگوار نہ جانتا، بے قصور ستایا گیا۔

۱۴۰۲۔ اَلْكَيْسُ نِصْفُ الْعَيْشِ۔ (دنائی نصف روزی ہے)

(۳۰)

۱۴۰۳۔ تَلَبَّوْهُ تَصْيِدِي۔

(زمین سے چھٹ جاتا کہ تو شکار کرے) یعنی استقامت اور حُسن تدبیر سے کام لے تَلَبُّدُ: شکار پر قابو پانے کے لیے زمین سے چھٹ جانا۔

۱۴۰۴۔ لَيْسَ لَهُ جِلْدٌ اَنْتَمُو۔

(اس کے لیے چیتے کی کھال اڑھل) دشمنی ظاہر کی، بیٹریا بن گیا۔

۱۴۰۵۔ بَعْدَ اَللَّتِي دَا اَلَّتِي۔

(اس کے اور اس کے بعد) چھوٹی بڑی مصیبت کے بعد، مثل قصہ طلب ہے۔ جبریں کے ایک شخص نے ایک سپتہ قد عورت سے شادی کی، اس سے بہت تکلیفیں پہنچیں، چھوڑ کر دوسری کی۔ یہ دراز قدرتی اور اس سے پہلے سے بھی دو گنی تکلیفیں پہنچیں، اس کو بھی طلاق دے دی اور عہد کیا کہ: بَعْدَ اَللَّتِي دَا اَلَّتِي لَا اَنْزَوْجَ اِيْمَانًا۔

۱۴۰۶۔ وَمِنْ الْجَا جَاءَ مَا يَصْرُو وَيَنْفَعُ۔

(بعض جیتیں وہ ہیں جو ضرر پہنچاتی ہیں اور نفع بھی دیتی ہیں)

۱۴۰۷۔ اَللَّحْظُ اَصْدَقُ اِتِّبَاءً مِنَ اللَّفْظِ۔

نگاہ الفاظ کی نسبت زیادہ سچی ضرورتی ہے۔)

۱۴۰۸۔ اَللَّحْظُ اَصْدَقُ اِتِّبَاءً مِنَ اللَّفْظِ۔

نگاہ الفاظ کی نسبت زیادہ سچی ضرورتی ہے۔)

۱۴۰۹۔ اَللَّحْظُ اَصْدَقُ اِتِّبَاءً مِنَ اللَّفْظِ۔

نگاہ الفاظ کی نسبت زیادہ سچی ضرورتی ہے۔)

د زبان ساجھائی ہوئی سواری ہے یعنی اختیار میں ہے، جیسے چاہو اور جہاں چاہو چلاؤ۔

۱۴۳۲۔ الْقَفْمُ تَوَرَّتُ الْتَقَفَ۔

دہشت سے لقمے غصہ اور انتقام پیدا کرتے ہیں، کہ اللہ کا غضب اور رشوت دینے والے کی ناراضگی اس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔

۱۴۳۳۔ كَوْنُ الْقَفْمِ كَوْنُ الْتَقَفِ كَوْنُ الْتَقَفِ كَوْنُ الْتَقَفِ۔

اگر میں نے اسے شکم چٹایا تو میری انگلی چھا ڈالے گا،

۱۴۳۴۔ كَانَمَا الْقَفْمُ الْحَجَرِ۔

اگر ایک کوئی چیز ٹھکانا ہے "ایٹل کا جواب پتھر سے دیا" یا

ایسا جواب دیا جیسے منہ پر پتھر سے مارا۔

۱۴۳۵۔ كَلْبٌ مِّنْهُ مَنَاقِبُ الْقَفْمِ۔

دہشت سے لقمے غصہ کے پینے کی محنت و مشقت (اٹھائی) یعنی اس

مشقت سے لقمے غصہ پیدا ہوتا ہے جس سے لقمے غصہ لادنے سے آتا ہے۔

۱۴۳۶۔ كَوْنُ الْقَفْمِ كَوْنُ الْتَقَفِ كَوْنُ الْتَقَفِ كَوْنُ الْتَقَفِ۔

دہشت سے لقمے غصہ پیدا ہوتا ہے جس سے لقمے غصہ لادنے سے آتا ہے۔

تکلیف کہا کچھ گا۔

۱۴۳۷۔ اَلَيْتُ حَبْلًا عَلَى غَارِبِهِ۔

اگر کی رہی اس کے کہان پر ڈال دوں جہاں چاہے جائے۔

۱۴۳۸۔ اَلَيْتُ فِي الدَّلَاةِ دَلْوًا۔

اڈوں میں تم بھی اپنا ڈال دوں دوسروں کے ساتھ تم بھی قسمت

۱۴۳۹۔ اَلَيْتُ فِي الدَّلَاةِ دَلْوًا وَ الشَّهْلَى۔

(سہیل اور دھماکاساں مل سکتے ہیں) سہیل قطب جنوب کی سمت ایک

سندھ سے رہتا، قطب شمالی کے قریب بنات النعش کا ایک چھوٹا

ساتتارہ ہے۔

۱۴۴۰۔ هَمٌّ يَلْقَى الْبَطَالَ الْبَطَالَ يَكْلَمُ۔

دو چوہانوں سے دو چار ہو گا وہ زخمی ہو گا،

۱۴۴۱۔ يَغْيِرُ اللَّهُ تَرْتَبِقُ الْفُتُوقُ۔

دکھیں ہی میں شکات پُر نہیں ہو جاتے ہیں،

۱۴۴۲۔ كَيْسٌ يَلَامُ كَارِبٌ مِنْ حَتْمِهِ۔

(اپنی موت سے بھاگنے والے کو ملامت نہیں کی جاتی،

۱۴۴۳۔ رَبِّ لَا تَجْعَلْ مِثْلَهُ۔

دہشت سے ملامت کرنے والے خود قابل ملامت ہوتے ہیں،

۱۴۴۴۔ رَبِّ مَلُومٌ لَّا ذَنْبَ لَهُ۔

دہشت سے ملامت کیے ہوئے لوگوں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا،

۱۴۴۵۔ رَبِّ مَلُومٌ لَّا عُدْرَ لَهُ۔

دہشت سے ملامت کیے ہوئے لوگوں کا کوئی عذر نہیں ہوتا، واقعی عذر

نہیں ہوتا یا قابل اظہار نہیں ہوتا۔ ان معنی میں یہ مثل دُبْ مَلُومٌ لَّا

ذَنْبَ لَهُ تَلُومٌ کے ہم معنی ہے اور اسی مضمون کا یہ مصرع ہے :-

كَلَّ لَهْ عُدْرًا وَ اَنْتَ تَلُومُ۔

۱۴۴۶۔ الْكَلِيلُ اخْفَى لِلْوَيْلِ۔

(رات شر کو زیادہ چھپا نیوالی ہے) رات ہر اچھے بڑے کام کو چھپا لیتی ہے

۱۴۴۷۔ الْكَلِيلُ كَلِيلٌ وَ اَنْتَ مُقِيمٌ۔

دراں لمبی ہے اور تو چاندنی میں ہے، صبر سے حصول مقصد کا انتظار

کرو، گھبرا دینے والی بھی نہیں ہے۔

۱۴۴۸۔ مَا كَانَ كَيْفِي عَنْ صَبَاحٍ يَنْجِي۔

میری رات صبح کو ظاہر نہیں کرتی تھی، میری شب تاریک کی صبح ہی

نہیں ہوتی تھی۔

۱۴۴۹۔ إِنَّهُ الْكَلِيلُ وَ اَصْوَابُ الْوَادِي۔

دراں ہے اور وادی کے پیچ و خم، خطرات ہیں اور راہ کی مشکلات

اَصْوَابُ: جمع صوبج بمعنی وادی کا موڑ۔ پکڑ۔

۱۴۵۰۔ لَيْتِنِ الْكَلَامُ قَيْدُ الْقُلُوبِ۔

ذم باتوں کی بڑی ہے، جس میں دل گرفتار ہو جاتے ہیں۔

۴۰

م

۱۴۵۱۔ مِثْلُ النَّعَامَةِ لَا ظَنِيرٌ وَلَا جَمَلٌ۔

(شرم غ کی طرح ہے کہ نہ پرندہ ہی ہے اور نہ ہی اونٹ) چمگا دوں کی

طرح نہ پرندہ نہ چوہا ہے۔

۱۴۵۲۔ مِثْلُ ابْنَةِ الْجَبَلِ مِثْلُ الْقَلْبِ تَقُلُ۔

(صلے باز گشت کی طرح کہ جب بھی کوئی بولے وہ بول اٹھے) ہر بات کی

تائید کرنے والا ہے مغز۔ ابنۃ الجبل، آواز باز گشت۔

۱۴۵۳۔ لَيْتَنِ هَذَا كُنْتُ أَحْسَبُكَ الْحَسَا۔

- ۱۲۵۸۔ کُلُّ أَمْرٍ فِي مَا يُدْرِي بِهِ۔
 ہر شخص میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا اس پر اتمام لگایا جاسکے،
 ۱۲۵۹۔ تَمَرَّدَ مَارِدٌ وَعَزَّ الْأَبْلَقُ۔
 مارو نے سرکشی کی اور ابلق سخت ہو گیا، حصول مقصد مشکل ہو گیا۔
 مَارِدٌ: دوست الجندل کا ایک قلعہ۔ اَبْلَقٌ: ستموال بن عادی کا قلعہ تھا جو مختلف رنگوں کے پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ زبائے ان قلعوں کو نفع کرنے کی کوشش کی اور جب ناکام رہی تو اس نے کہا تھا:
 تَمَرَّدَ مَارِدٌ وَعَزَّ الْأَبْلَقُ۔
 ۱۲۶۰۔ مَنْ مَرَدَّتْ سَرِيرَتُهُ مَاتَتْ عَلَانِيَتُهُ۔
 (جس کا باطن بیمار ہوگا اس کا ظاہر مر جائیگا۔)
 ۱۲۶۱۔ أَمْرَعَتِ الْعَجْزَاءُ۔
 ریت کا ٹیلہ سرسبز ہو گیا، غیر متوقع جگہ سے مقصد حاصل ہو گیا،
 جیسے پتھر میں جونک لگ گئی۔ اَمْرَعَتْ: سرسبز و تروتازہ ہو گیا۔
 عَجْزَاءُ: ریت کا بلند ٹیلہ۔
 ۱۲۶۲۔ أَمْرَعَتْ فَأَنْزِلْ (تو نے سرسبز جگہ پالی ہے یہیں اتر پڑے،
 ۱۲۶۳۔ كَالْمَتَمَرِّخِ فِي دَمِ الْقَتِيلِ۔
 (مقتول کے خون میں لوٹنے والے کی طرح) شر اور مضرت کے قریب اور در بھی۔
 ۱۲۶۴۔ أَمْرَقُ مِنَ السَّهْجِ۔ (تیر سے زیادہ پار ہو جانے والا،
 ۱۲۶۵۔ الْمَرْاحُ لِقَاءِ الضَّغَائِنِ۔
 (مذاق کینہ کا حامل ہے، ہنسی میں گل بھنسی ہو جاتی ہے۔
 ۱۲۶۶۔ الْمَرْاحَةُ تَذْهَبُ الْمَقَابِلَةَ۔ (مذاق رعب کو زائل کر دیتا ہے،
 ۱۲۶۷۔ مَنْ يَمِشْ بِزَحْنٍ يَمَارِكِبُ۔
 (جو شخص پیدل چلنے لگا وہ سواری پر رضامند ہو جائے گا۔)
 ۱۲۶۸۔ أَمْضَى مِنَ الرَّيْحِ۔ (ہوا سے زیادہ گزر جانے والا،
 ۱۲۶۹۔ أَمْضَى مِنَ السَّيْفِ۔ (تواری سے زیادہ گزر جانے والا،
 ۱۲۷۰۔ أَمْضَى مِنَ السَّهْجِ۔ (تیر سے زیادہ گزر جانے والا،
 ۱۲۷۱۔ أَمْضَى مِنَ الْأَجَلِ۔ (موت سے زیادہ نافذ ہونے والا،
 ۱۲۷۲۔ أَمْضَى مِنَ الْقَدْرِ لِلتَّاجِرِ مَقْرَهٌ تَقْدِيرُ سَيِّئَةٍ زِيَادَةُ نَافِذٍ بَرِيءٍ أَوْ لَا،
 ۱۲۷۳۔ يَحْسِبُ الْمَنْطُوسُ أَنَّ كُلَّ مَطْرٍ۔
 (بارش میں بھیگا ہوا سمجھتا ہے کہ ہر شخص بارش میں بھیگ گیا ہے،
 سب کو اپنی طرح دولت مند سمجھتا ہے۔

ایسے ہی وقت کے لیے میں تجھے حیرتہ پلاتا تھا، اسی وقت کے لیے پالا تھا، اب ضرورت پر کام آ۔

- ۱۲۴۲۔ يَمْشِي يُنْكَأُ الْقَرْحُ۔ (وہی مجھ جیسے شخص کے ٹانگوں زخم کر دیا جانتا ہے، یعنی مجھ سے ہی شر کا علاج ہو سکتا ہے۔
 ۱۲۴۵۔ مَنْ مَحَصَّنَكَ مَوَدَّتَهُ فَقَدْ خَوَّلَكَ مُهْجَتَهُ۔
 (جس نے اپنی محبت تیرے لیے پُر غصہ کی اس نے اپنی جان کا تجھے مالک بنا دیا، مَحَصَّنَ: مَوَدَّةً: محبت کو خالص کر دیا۔
 ۱۲۴۶۔ عِنْدَنَا إِلَّا مِثْحَانُ يَكُونُ الرَّجُلُ أَذْبَحَانُ۔
 (امتحان کے وقت آدمی کی عزت ہوتی ہے یا بے عزتی،
 ۱۲۴۷۔ مَعَ الْمُخْصِ يَبْدُو وَالزَّيْدُ۔
 (دلو نے ہی سے کھن نکلتا ہے، یعنی کوشش ہی سے مراد حاصل ہوتی ہے۔
 ۱۲۴۸۔ قَدْ كَانَتْ ذَلِكَ مَرَّةً فَأَيُّومٌ لَا۔
 (کیسے تھا اگر اب نہیں ہے) ایک مرتبہ ہو چکا، آج ممکن نہیں۔
 ۱۲۴۹۔ أَمْرٌ مِنَ الْعُلْفَةِ۔ (حفظ (انداز) سے زیادہ کر دیا،
 ۱۲۵۰۔ أَمْرٌ مِنَ الْحُظْلِ۔ (حفظ (انداز) سے زیادہ کر دیا،
 ۱۲۵۱۔ الْمَرْءُ بِأَصْغَرِيهِ۔ (آدمی اپنے قلب و زبان کی وجہ سے ہی آدمی ہے) اصغرین: دو چھوٹے اعضا۔ (زبان اور دل) سے ہی آدمی کی تقدیر بنتی بگڑتی ہے۔
 ۱۲۵۲۔ الْمَرْءُ تَوَاقَدَ إِلَى مَا لَمْ يَنْسَ۔
 (آدمی ان چیزوں کا شائق ہوتا ہے جو اسے حاصل نہیں ہوئیں، أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الْإِنْسَانِ أَمْنَعُهُ جِسْمٍ شَيْءٍ مِمَّا يَنْسَى دَهْ بِهِيَ الْإِنْسَانُ كَو سَبَّ سَبَّ زِيَادَةً مَحْبُوبٌ هُوَ تَوَاقَدَ۔
 ۱۲۵۳۔ الْمَرْءُ حَيْثُ يَضَعُ نَفْسَهُ۔
 (آدمی اس درجہ پر ہوتا ہے جہاں اپنے نفس کو رکھے) اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے۔
 ۱۲۵۴۔ الْمَرْءُ بِخَلِيلِهِ۔
 (آدمی اپنے دوست کے ساتھ شمار ہوتا ہے، دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔
 ۱۲۵۵۔ الْمَرْءُ مِرَاقَةُ أَخِيهِ۔ (آدمی اپنے بھائی کا آئینہ ہے،
 ۱۲۵۶۔ كُلُّ أَمْرٍ يُخْتَلَبُ بِخَلِيلِهِ رَأْيُ رَأْيِ بَيْنِ بَيْنٍ صَحَّحَ كَرَاهِي،
 ۱۲۵۷۔ كُلُّ أَمْرٍ فِي بَيْنِهِ صَبِيٌّ۔
 (ہر آدمی اپنے گھر میں بچہ ہوتا ہے، یعنی شان و شوکت کو بالائے طاق رکھ کر بچوں کی طرح بے تکلف ہو جاتا ہے۔

۱۷۷- اَلْمُعِيْدُ تَسْمَعُ بِهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَكْذِبَ -

زمینداری کو مستحق اس کو دیکھتے ہی بہتر ہے، دور کے ڈھول، سہارے :
ایک شخص معیریٰ ہمیشہ نعمان کے ہاں پروڈا کہہ ڈالتا رہتا تھا اور کسی
طرح نعمان کے ہاتھ نہ آتا تھا۔ اس کی جرات اور شجاعت کی خبریں من
مکرانز نعمان نے اس کو مان دیں، حبیہ، معیریٰ کو دیکھا تو وہ انتہائی
بد صورت تھا۔ اس وقت نعمان نے کہا : **تَسْمَعُ بِالْمَعْيِرِيِّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ**۔
معیریٰ نے سنا تو جواب دیا کہ لوگ کوئی اونٹن کھڑا ہی ہیں، آدمی تو اپنے
اصغرین یعنی قلب و زبان سے بھجا جاتا ہے۔ نعمان کو اس کا جواب
پسند آیا اور اس کو اپنے صحابین میں شامل کر لیا۔

مجلسه فی ۱۳۰۳/۱۲/۲۵

کچھ عیسائیوں کو گرائے کے بعد اپنے اپنے قدرت دینا ہے۔
 عیسائیوں کے لیے یہ بات ہے۔

۱۳۷۱ء۔ تیسری جنگ عظیم کے دوران (۱۹۴۵ء) کوئی دوست نہیں۔

۱۴۰۰/۰۱/۰۱
 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

۱۶۶۔ لاہور میں سعودی تقبیر۔

روانگیر کسی ہے جس کا رنگ سیا نہیں، ایک دانہ دہی یا ایک نمک نہیں، شرفی،
مثلاً اور مانند، ترجمہ: کھجور کی گٹھلی کا تشکاف۔

۴۸۰۔ اِنَّهُ تَعْلِيْمُ الصَّيِّغَةِ (احسان مبتدیان کی کو ختم کر دیتا ہے)
۴۸۱۔ اَمَّا الْجَمْعُ فَرَضِي الْجَمْعِ.

دوسب کو نہ دینے والا سب کو راہی کرنے والا ہے کسی کو دنیا اور کسی کو نہ دینا اور شکایت ہوتا ہے کسی کو بھی نہ دیگا، تو سب راہی رہیں گے۔

۱۴۸۲۔ اَضْعُ مِنْ الْاَسَدِ۔ (شیر کی ناک سے زیادہ محفوظ)

۳۸۴۔ اَمَّعُ مِنْ عُقَابِ الْجَوِّ (فضا کے عقاب سے زیادہ محفوظ)

۴۸۴۔ اَمْتَعُونِیْ حَتَّاءَ الْبَیْثِ۔ (شیر کے تالے سے زیادہ محفوظ)

۴۸۵۔ کُلُّ مَنُوعٍ مُتَّوَعٌ۔ (ہر ممنوع چیز طلب کی جاتی ہے)

۱۴۸۔ اَزْ مَلَلَتِ فَاَسْتَكْبَرُوْا (جہ تنہائی کرے توست زیادہ کرے)

۱۴۵۔ اے مومنو! کہانت میں سے بہت سی تمنایں موت کو کھینچ لاتی ہیں،

۱۴۸۰- التَّائِبَةُ وَالذَّائِبَةُ -

۴۸۹۔ تَبَوُّهُ الْحَبْلَ وَرَوَّاهُ كُلُّ بَشَرٍ مِمَّا۔
اسی طرح الْمُنْبَیَّاتِ لَا تَبْیَأُ اور اَنْشَارِ الْعَارِ بھی کہا جاتا ہے۔
دعوت بہتر ہے نہ کذلت یعنی عار کے مفاد میں موت کو ترجیح دینا چاہیے

۴۹۰۔ اَلْمَوْتُ اَهْوَنُ مَا بَعْدَهُ وَاَسَدُّ مَا قَبْلَهُ۔
(شریف عورت مر جاتی ہے مگر اپنے پستانوں کے ذریعے نہیں کھاتی،
موت کے باوجود شرافت کا نظارہ رکھنے والے کے لیے کہا جاتا ہے۔

(موت کے بعد کی حالت سے موت آسان ہے اور پہلے کی حالت سے موت زیادہ شدید ہے)

۱۴۹۱۔ هَذَا الْمَيْتُ لَا يُسَاوِي هَذَا الْبُكَاءَ۔

(یہ مردہ اتنے رونے کا مستحق نہیں ہے۔)

١٣٩٢. مَا لِي تَجْلِيهِ الرِّيحُ تَأْخُذُهُ الرِّيحُ.

(دو ماہ جس کو ہوا میں کھینچ کر لاتی ہیں اس کو بگولے پکڑ لیتے ہیں) مفت کی دولت دہاروں نے لٹائی۔

۴۹۳. ماہ ذی القعدة.

دینی سے گھبراہٹ جیسا نہیں، صدا کا پانی مشہور تھا۔ مگر وہ بات
کمال مولوی مدن کی سی

١٧٩٢- يَا مَاءُ لَوْ بَعَيْتُكَ غَصَصْتُ

دائے بائیں: اکاش تیرے سوا کسی چیز سے میرے پیچھے اگستا، نازل شدہ مصیبت کے سوا کسی اور نصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔

۱۴۹۵۔ اَنَّاۤی مِنَ الْکُوْکِبِ۔ (ستارہ سے بھی زیادہ دور)

١٢٩٦ لَا يُبَيْتُ أَبْقَلَهُ إِلَّا الْحُلُقَةُ

رساگ کو کھیت ہی اگاتا ہے گھٹیا بات گھٹیا آدمی کے ہی منہ سے نکلتی ہے

۱۴۹۷۔ نَجْمُ الْكَوَلِبِ لَا اَرْضُ رُبَّ السَّحَابِ (کتے کا بھونکنا بادل کو ضرر نہیں دیتا،

۱۴۹۸. أَنْحَزَحُ مَا وَعَدَ.

دشرف نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، یہ سب سے پہلے حادثہ ابن

عمرو کندی نے صخر بن نھشل سے کہا تھا۔ حادثہ نے صخر کو اس شرط

بر لوٹ مار کا ایک موقع بتا ماکہ جو ہاتھ آئے گا اس میں سے یا بچواں

حصہ حارث کو دے گا۔ جب صفحہ اس لوٹ سے کامیاب واپس ہوا

کو سمجھنا رہا کہ خطا کیا۔ اس غصہ میں اس نے اپنی کمان توڑ ڈالی صبح کو دیکھا تو پانچوں تیر خوں آلود ملے اور پانچ گور خنشاہ ہوئے پڑے تھے۔ ندامت اور افسوس سے اپنی انگلیاں اتنی زور سے کاٹیں کہ ایک انگلی کٹ گئی۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے۔
نَدَمْتُ نَدَامَةً لَّوْأَنَّ نَفْسِي بِتُكَا وَمَعْنَى رَأَى الْقَتْلَ لِنَفْسِي۔
مجھے ایسی ندامت ہوئی کہ اگر میرا نفس میری بات ماننا تو میں خودکشی کر لیتا۔

۱۵.۶۔ کُلُّ النَّدَامَةِ إِذَا نَادَيْتُ يُخَذُّ لِي: إِلَّا النَّدَامَةُ إِذَا نَادَيْتُ
یا مَالِی۔ (ہر آواز جو میں دیتا ہوں مجھے رسوا کرتی ہے، بجز اس آواز کے کہ میں کہوں یا مَالِ، اپنے مالی کے سوائے کسی چیز کو اپنی مدد کے لیے بلانا باعث رسوائی ہے)

۱۵.۷۔ اَلنَّوَالِیُّ لَا اَلْقَوَائِبَ۔
(دور کی عورتوں سے نکاح کرو نہ کہ اقارب کی عورتوں سے) نزاع: جمع نَزَائِعَ، یعنی اجنبی۔ قَرَابَ: جمع قَرَابِیَّة، یعنی رشتہ دار۔ نزاع و قَرَابَ فعل محذوف "تَزَوَّجُوا" کی وجہ سے منصوب ہیں۔
۱۵.۸۔ تَزَلَّتْ مِنْهُ بُوَارِدٌ غَيْرُ ذُو نَرَجٍ۔
(تو اس کے پاس بغیر بھیتی کی وادی میں اتر رہے وہاں سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔)

۱۵.۹۔ اِذَا نَزَلَ بِكَ الشَّرُّ فَاقْصِدْ۔
(جب تجھ پر شر نازل ہو تو بیٹھ جا یعنی شر کی طرف جلدی اور سبقت نہ کر خواہ تجھے اس کی طرف سبقت کرنے پر مجبور کیا جائے۔)
۱۵.۱۰۔ لَبِيسَ عَلِيكَ لَسِيْجُهُ فَاصْبِرْ وَجُرْ۔
(اس کا بننا تیرے ذمہ تو نہیں ہے لہذا کھینچ اور گھسیٹ، مال مفت دل بے رحم۔)

۱۵.۱۱۔ اِنَّ لِّلنِّسَاءِ وَجْهًا۔ (وہ ایک ہی بنا ہوا ہے، یعنی یکتا و منفرد ہے۔)
۱۵.۱۲۔ اِنَّ النِّسَاءَ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ۔
(عورتیں شیطان کے جال ہیں، حَبَالُ: جال جو تشکار کو پھانسنے کے لیے نصب کیا جائے۔ اس کا واحد حَبَالَةٌ ہے۔)
۱۵.۱۳۔ اِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الْاَقْوَامِ۔
(عورتیں مردوں کا نصف حصہ ہیں، یعنی مساوی حق کی مالک ہیں۔ شَقَائِقُ: جمع شَقِیْقَہ۔ چیز کے درجنوں میں کا ایک حصہ۔ اقوام سے مراد مرد ہیں۔)

تو حارث نے یہ مقولہ کہا تھا۔

۱۲۹۹۔ نَاجِحًا يَنْتَاجِحُ۔

(نقد نقد) ناجح ناجح: ناجح بھی مستعمل ہے۔ اسی قسم کی مثال ہے: يَبْدَأُ يَبْدُو رَأْسًا دِينًا اس ہاتھ دینا اس ہاتھ لینا فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے یعنی اَبْنَيْتُكَ نَاجِحًا يَنْتَاجِحُ۔

۱۵.۰۰۔ دُونَكَ النَّجْمُ۔

(اس سے نیچے تو ستارہ ہی ہے) نجم سے مراد عام ستارہ بھی ہو سکتا ہے اور ثریا بھی۔

۱۵.۱۔ مَنْ نَجَّاهُ بِرَأْسِهِ فَقَدْ رَجَحَ۔

(جو اپنا سر بچالے گیا وہ نفع میں رہا، نفع کی امید میں مصائب میں مبتلا ہو، پھر سلامت بچ نکلنے پر رضا مند ہو جائے۔ یہ ایک مصرع ہے۔
الْكَلْبُ دَاجِرٌ دَاكِبًا شَتَّى طَعْمُهُ يَطَاحُ اسْدًا مَا أَرَاهَا تُصْطَلِحُ۔ مَنْ نَجَّاهُ بِرَأْسِهِ فَقَدْ رَجَحَ۔ (رات اندھیری ہے اور میڈھے سینک مارتے ہیں شیروں جیسی ٹکریں مجھے وہ صلح کرتے نظر نہیں آتے لہذا جو اپنا سر بچالے گیا وہ نفع میں رہا۔)

۱۵.۲۔ مَا أَنْتَ بِخَيْبَةٍ وَلَا سَيْبَةٍ: نہ تو خباہت یافتہ ہے نہ مقلد،

۱۵.۳۔ نَحْتُ أَتَلَّتْ۔

(اس نے اس کے جھاؤ کو چھیل ڈالا، یعنی قلعی کھول دی۔ اَلْمَتَّ: جھاؤ کا درخت۔ یہاں مراد اصل اور حسب سے ہے۔)

۱۵.۴۔ اَلْاَنْتَدَمُ عَلَى السَّكُوْتِ خَيْرٌ مِنَ الْاَنْتَدَمِ عَلَى الْقَوْلِ۔

(خاموشی پر ندامت بولنے پر ندامت سے بہتر ہے)

۱۵.۵۔ اَلْاَنْتَدَمُ مَوْتٌ اَلْاَنْتَدَمُ مَوْتٌ۔

(کسی سے زیادہ نام کسی کسی راوی میں اپنے اور ملے چرائے گیا۔ ایک چٹان کے شکاف میں شوخ کا پودا اگا ہوا تھا جس کی لکڑی سے تیر کمان بناتے ہیں کسی نے اپنے مشکیزہ سے اس کو پانی دیا۔ ایک سال تک اس کی دیکھ بھال کرتا رہا جب درخت بڑھ کر کچھ درست ہو گیا تو کسی نے اس کو کاٹ کر پانچ تیر اور کمان بنائے اور گور خرو کے تشکار کے لیے ایک وادی میں چھپ کر بیٹھ گیا جب گور خرو کا ایک گله پانی پینے کے لیے آیا تو کسی نے تیر چلایا جو ایک گور خرو کے پازنکل کر ایک چٹان سے ٹکرایا جس سے چنگاریاں نکلیں کسی سمجھا کہ تیر خطا گیا، اسی طرح اس نے پانچوں تیر چلائے اور ہر تیر

۱۵۱۴۔ التَّشِيدُ مَعَ الْمُسْتَوْجَةِ۔

دشمن خزانہ خوشی کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی طبیعت خوش ہوتی ہی گایا جاتا ہے۔ یہ شتمنی نے اس وقت کہا تھا جب نبی سلامان نے اس کو قید کر لیا اور قتل کرنے سے پہلے شتمنے کی فرمائش کی التَّشِيدُ مَعَ الْمُسْتَوْجَةِ۔

۱۵۱۵۔ اَلشَّطُّ مِنْ ظُلْمِي مُقْبِرٌ۔ (چاندنی رات والے ہرن سے زیادہ خوش)

۱۵۱۶۔ اِذَا نُصِرَ الرَّأْيُ بَطَلَ الْهَوَىٰ۔

(جب عقل کی امداد ہوتی ہے تو خواہش نفس ختم ہو جاتی ہے)

۱۵۱۷۔ نُصْرَةُ الْحَقِّ شَرَفٌ۔ (حق کی امداد کرنا شرافت و بزرگی ہے)

۱۵۱۸۔ لَوْ اَنْصَفَ النَّاسُ لَا سْتَوَاخَ الْقَاضِي۔

(اگر لوگ انصاف سے کام لیتے تو منصف کو آرام مل جاتا)

۱۵۱۹۔ لَا يَنْتَصِفُ حَلِيْمٌ مِنْ جَهْلٍ۔

(بددعا جاہل سے انتقام نہیں لیتا، جواب جاہل باشد خموشی)

۱۵۲۰۔ رَنْصَفَ الْعَقْلُ مَدَارَةَ النَّاسِ۔ (دمنساری آدمی عقل ہے)

۱۵۲۱۔ اَنْصَبِحَ اَخُوكَ تُحَدَّرُ مَدً۔

(زیرے بھائی نے پکایا اور پھر رکھ لادی) کام اچھا کیا مگر پھر خراب کر دیا۔

۱۵۲۲۔ عِنْدَ النَّظَارِ يُغْلَبُ الْكَبَشُ الْاَجْمُ۔

(سینگ ٹکرانے کے وقت بے سینگ سینڈھا مغلوب ہو جائیگا کسی ٹہم

میں بے ساز و سامان شریک ہو گا تو ناکام رہے گا۔

۱۵۲۳۔ اَلطَّقُ مِنْ تَحْبَانِ۔ (سحبان سے زیادہ خطیب)

۱۵۲۴۔ مَنْ نَظَرَ فِي الْعَوَاقِبِ سَلِمَ مِنَ التَّوَاتِبِ۔

(جو انجام پر نظر رکھے گا حادثوں سے محفوظ رہے گا۔)

۱۵۲۵۔ مَنْ صَارَ لَعْنَةً اَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ (جو بیٹھنے کا اس کو بھیڑ لکھا جائیگا)

۱۵۲۶۔ دُبُّ نَعْلٍ شَرٌّ مِنَ الْخَفَاءِ۔

(بہت سے جوتے ننگے پاؤں ہونے سے زیادہ بُرے ہیں)

۱۵۲۷۔ نَعِمَ كَلْبٌ مِنْ بُؤْسِ اَهْلِهِ۔

(کتا اپنے آقا کی سختی و فقر سے مرطاب تازہ ہو گیا، کسی عرب کے اونٹ

بکریوں میں بیماری پھیل گئی اور جانور مرنے لگے اور کتے ان کا گوشت

کھا کر خوب مرے تازے ہو گئے۔

۱۵۲۸۔ مِثْلُ النَّعَامَةِ لَا طَيْرٌ وَلَا جَمَلٌ۔

(شتر مرغ کی طرح کہ پرندہ ہے نہ اونٹ)

۱۵۲۹۔ نَفَخَتْ فِي غَيْرِ هَوَءٍ۔

(تو ایسی چیز میں پھونک دے رہے جس میں آگ نہیں ہے، یہ موقع کو ششیں صرف کر رہے۔)

۱۵۳۰۔ مَا يَحْكَا نَا فَعْرُ ضَرْمَةٍ۔

(مکان میں کوئی آگ پھونکنے والا بھی نہیں، یعنی کوئی نہیں۔ ضرمت: جس چیز

میں آگ جلائی جائے، یہاں میں با وضیمہ دار کی طرف راجع ہے۔)

۱۵۳۱۔ اَنْفَذُ مِنْ سَهْجٍ۔ (تیرے سے زیادہ سوراخ کرنے والا)

۱۵۳۲۔ اَنْفَرُ مِنْ ظُلْمِي۔ (ہرن سے زیادہ بدکنے والا)

۱۵۳۳۔ اَنْفَرُ مِنْ نَعَامَةٍ۔ (شتر مرغ سے زیادہ بدکنے والا)

۱۵۳۴۔ اَنْفَرُ مِنْ بَعِيْرٍ اَزْبَتْ۔ (گھنے بالوں والے اونٹ سے زیادہ بکے

والا) اَزْبَتْ: گھنے بالوں والا۔ اس لیے کہ گھنے بالوں والا اونٹ کے بال

جب آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو ان سے ہمیشہ بدکنے ہے۔

۱۵۳۵۔ نَفْسُ عَصَاٍ سَوَدَتْ عَصَاٍ۔

(عصا کے نفس نے عصا کو سردار بنا دیا، یعنی اپنے زور بازو سے سردار بنا

عصا شاہ نعمان کا دربان تھا جو بعد میں بادشاہ بن گیا۔ اس کے

متعلق یہ شعر کہا گیا ہے سہ نَفْسُ عَصَاٍ سَوَدَتْ عَصَاٍ وَ عَمَلُهُ اَكْرَمُ وَ

اَلْاَقْدَامُ وَ دَمِيْرُهُ يَدُكَ بَہَا (عصا کے نفس نے عصا کو سردار بنا

دیا اور اس کو حملہ کرنا اور جرات سکھادی اور اس کو باہمت بادشاہ بنا

دیا جس کو شرف و بزرگی وراثت میں ملے یا اپنے آقا و اجداد پر فخر کرے

اس کو غبطہ جی کہتے ہیں اور جو اپنے ذاتی شرف و فضل پر فخر کرے اس

کو عَصَا جی کہا جاتا ہے۔

۱۵۳۶۔ اَلنَّفْسُ مَوْلَعَةٌ يَحْبُبُ الْعَاجِلَ۔

(نفس شہیاد ہے جلدی حاصل ہونی والی چیز سے محبت رکھنے کا) جریر کے

شعر کا دوسرا مصرع ہے مصرع اول یہ ہے: اِنِّي لَا رَجُوْ رَيْتُكَ شَيْئًا عَاجِلًا

(میں تجھ سے جلد ملنے والی چیز کا امیدوار ہوں،

۱۵۳۷۔ اَلنَّفْسُ تَعْلَمُ مِنْ اَخْوَاهَا الْفَارِعَ۔

(نفس جانتا ہے کہ اس کا نافع بھائی کون ہے) کسی کی بدعت یا مذمت کے

موقع پر بولا جاتا ہے)

۱۵۳۸۔ مَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ عَظْمًا اَكَلَتْهُ اَلْكِلَابُ۔

(جو شخص اپنے آپ کو ہڈی بنائے گا، اس کو کتے کھا جائیں گے)

۱۵۳۹۔ مَا يَنْفَعُ اَلْكَبِدَ يَضُرُّ الرِّطْحَالَ۔

(جو چیز جگر کو نفع دیتی ہے وہ تلی کے لیے مضر ہے)

صبح سے زیادہ نماز، رات کے پردہ میں بھی ہوئی چیز کو فاش کر دیتی ہے۔

۱۵۵۵۔ مَن تَهَشَّتْهُ الْحَيَّةُ حَذَرَ الرَّسَنِ۔

دسانپ کا کاٹنا رسی سے ڈرتا ہے، جیسے دودھ کا جلا چھچھوٹا
پھونک کر پیتا ہے۔

۱۵۵۶۔ هَلْ يَنْحَصُّ الْبَارِيَّ بِلَا جَنَاحٍ؟

کیا شکر انبیر بازوؤں کے اڑسکتا ہے؟ تعاون کی ترغیب کے لیے

یا ایسے مدعی کے لیے کہا جاتا ہے جو ضروری صلاحیت سے بے بہرہ ہو۔

۱۵۵۷۔ لَا تَنْتَدِعَنَّ خُلُقٌ وَتَأْتِيْ وَثَلَةٌ: كَيْسِيْ عَادَتٌ سَ لَوْ كُنْ كَوْنُ

مرت کر جس کو تم خود کرتے ہو خود رافضیت دیدیگراں رافضیت

۱۵۵۸۔ النَّاسُ يَجْزِيُونَ بِأَعْمَالِهِمْ: دُكُوْنُ كُوْنِ اَعْمَالِ كِي جَزَائِلِ

۱۵۵۹۔ النَّاسُ أَتْبَاعُ مَنْ غَلَبَ: دُكُوْنُ غَالِبِ دِي كَيْسِيْ عَادَتٌ سَ لَوْ كُنْ كَوْنُ

۱۵۶۰۔ النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَاهَلُوا: دُكُوْنُ مَعْلُومِ جِيْزِ كِي دُشْمَنِ هُوْتِے

۱۵۶۱۔ النَّاسُ عَبِيدُ الْإِحْسَانِ: دُكُوْنُ اِحْسَانِ كِي غلامِ ہوں

۱۵۶۲۔ يَكُنْ أَنْاسٌ فِيْ بَعْضِهِمْ خَيْرٌ:

دُكُوْنُ اِحْسَانِ كِي غلامِ ہوں
لوگ اپنے اپنے اذیتوں کی خبر رکھتے ہیں، یعنی ہر قوم اپنے معاملات کو
طیروں سے زیادہ جانتی ہے۔

۱۵۶۳۔ اسْتَنْوَقِي الْجَمَلَ: (اُونٹ ناقرن گیا، اُونٹ ٹانگ باتیں کرتا ہے۔

۱۵۶۴۔ لَا تَأْتِيْ فِيْ هَذَا اَوْ جَمَلِيْ:

نہ اس معاملہ میں میرا اُونٹ ہے نہ میری ناقہ ہے، میں بری الذمہ ہوں۔

۱۵۶۵۔ نَامَ عَصَا سَاعَةِ السَّحَابِ:

دُکُوچ کے وقت عصا سو گیا، شکار کے وقت کتیا بگاسی، ضرورت کے

وقت غائب ہو گیا یا اسباب تاخیر پیدا ہو گئے۔

۱۵۶۶۔ النَّوَى أَوَّلُ الشَّجَرَةِ: (گھٹلی درخت کی ابتدا ہے)

۵

۱۵۶۷۔ يَهْتَبُ مَعَ كُلِّ رِيحٍ: (ہر ہوا کے ہمراہ چل پڑتا ہے)

۱۵۶۸۔ أَهْدَى مِنَ الْقَطَا:

دُقطا سے زیادہ ہدایت یافتہ، مشہور ہے کہ قُطَا اپنا راستہ کبھی نہیں بھولتی۔

۱۵۶۹۔ أَهْدَى مِنَ الْبَيْدِ إِلَى الْفَجْرِ:

دُمنہ کی طرف جانے والے راستہ سے زیادہ ہدایت یافتہ

۱۵۷۰۔ لَا يَنْفَعُ حَذْرُ مَنْ قَدَّرَ:

(احتیاط تقدیر کے مقابلے میں نفع نہیں دیتی۔

۱۵۷۱۔ مَا تَنْفَعُ الشَّعْفَةُ فِي الْوَادِي الرَّغْبِ:

(ضعیف بارش وسیع وادی کو نفع نہیں پہنچاتی عطا اس قدر کم ہے کہ ضرورت

پوری نہیں ہوتی۔ شعفہ: ضعیف بارش، الوادی الرغب: وہ وسیع

وادی جس کو تیز و تند سیلاب ہی بھر سکتا ہو۔

۱۵۷۲۔ لَا يَنْفَعُكَ مِنْ جَارٍ سُوَيْرٌ لَوْ قِي:

بُڑے پڑوسی سے بچنا بے فائدہ ہے، بچ نہیں سکتا۔

۱۵۷۳۔ وَمَا لَنْفَعُ الشَّيْءُ بِلَا رَجَالٍ: (بغیر آدمیوں کے تواروں کا کیا فائدہ،

۱۵۷۴۔ السَّقْدُ عِنْدَ الْحَافِرَةِ: (نقد سبقت کے وقت بنتا ہے، آگے

نکلنے والے گھوڑوں کے کھڑوں سے جو میلان کھدا ہے وہیں انعام کی رقم

پرکھانی جائے، یعنی جلدی ملنی چاہیے۔ حافرة: گھوڑے کے کھڑوں سے

کھدی ہوئی زمین۔ فاعلة: بمعنی مفعولہ ہے۔

۱۵۷۵۔ السَّقْدُ صَائِبُ الْقَلْبِ:

(نقد دل کا صابون ہے، صاف رہتا ہے کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوتا ہے

۱۵۷۶۔ مَا نَقَصَ مِنْ مَالِكَ مَا زَادَ فِي عَقْلِكَ:

(جس مال نے تیری عقل میں اضافہ کیا وہ کم نہیں ہوتا، ضائع نہیں گیا۔

۱۵۷۷۔ مَنْ نَقَلَ إِلَيْكَ فَقَدْ نَقَلَ عَنْكَ:

(جس نے تم سے دوسروں کی باتیں نقل کیں وہ تمہاری بھی نقل کر گیا،

۱۵۷۸۔ أُنْقَلَ مِنْ فَنِيٍّ: (سایہ سے زیادہ منتقل ہونے والا)

۱۵۷۹۔ أُنْقِيَ مِنَ الدَّمْعَةِ: (آنسو سے زیادہ شفاف،

۱۵۸۰۔ أُنْقِيَ مِنَ الْغَرِيْبَةِ:

(اجنبی عورت کے شیشے سے صاف، غریبہ: وہ عورت جو غیر قوم میں شادی کرے۔

وہ بنو سنگھار کا زیادہ خیال رکھتی ہے اس لیے آئینہ ہمیشہ صاف رکھتی ہے۔

۱۵۸۱۔ كَرَّ كَتْلُهُ عَلَى أَنْفِي مِنَ الدَّاحَةِ:

(میں نے اس کو پھٹیلے سے زیادہ صاف حالت میں چھوڑا، اس کے پاس کچھ تھا

۱۵۸۲۔ أَنْكُرُ مِنْ شَيْءٍ: (شئی سے زیادہ غیر معین، لفظ شئی ہر اسمِ مکرمہ

سے زیادہ عام مکرمہ ہے۔ ہر موجود چیز کے لیے کہا جاسکتا ہے۔

۱۵۸۳۔ أَنْمَرُ مِنَ الثَّرَابِ:

دُمنی سے زیادہ چھوڑا، نشان قبول رکے صاحب نشان کا پتہ دیتی ہے۔

۱۵۸۴۔ أَنْمَرُ مِنَ الصُّبْحِ:

۱۵۷۰۔ لَا تَهْوَتْ بِمَا لَا تَعْنِي.

(جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کی تعریف میں مبالغہ مت کر، ہرگز: تعریف میں مبالغہ کرنا۔

۱۵۷۱۔ هَوِّقْ عَلَى جَمْرِكَ.

(اپنی چنگاری پر پانی ڈالو غصہ کو ٹھنڈا کرو۔ ہرق الماء: پانی بسایا۔

۱۵۷۲۔ إِذَا هَكَذَا عَيْبٌ فَعَيْبٌ فِي الرَّبِّ بَاطِلٌ. (اگر ایک گناہ ہلک ہو گیا تو کسی میں دوسرا موجود ہے، ہاتھ سے نکلنے والے پر صبر اور موجود پر قناعت کے لیے کہا جاتا ہے۔ ربط: وہ سی جس سے جانور باندھ جاتے ہیں۔

۱۵۷۳۔ إِمَّا هَلْكَ وَإِمَّا مُلْكٌ دِيَا مَلَكٌ يَأْتِيكَ تَحْتَ يَدِ تَحْتِ.

۱۵۷۴۔ أَهْلَكَ مِنْ تَهَاتَاتِ السَّبَابِ.

(محرکے شخ و شخ راستوں سے زیادہ ہلک کر موالا، جس کی بھول بھلیا میں پھنس کر راہ نورد ہلک ہو جاتا ہے۔ ترصاٹ: وہ شاخ در شاخ راستے جو کسی بڑے راستے سے نکلیں سب سب: لق و دق صحرا۔

۱۵۷۵۔ كُلُّ هَمٍّ رَاحِي قَدْرٍ.

(ہر غم کشادگی کی طرف لے جاتا ہے، مصیبت کے بعد راحت ہے۔

۱۵۷۶۔ هَانَ عَلَى الْأَمَلِيسِ مَا لَا فِي الدَّيْرِ.

صاف پیٹھ والے اونٹ پر وہ چیز آسان ہے جس سے زخمی پیٹھ والا دوچار ہے۔ املس: وہ اونٹ جس کی پیٹھ تندرست و سالم ہو۔ الدیر: وہ اونٹ جس کی پیٹھ زخمی ہو۔ آرام والے مصیبت زدہ کی تکلیفوں کا احساس نہیں کرتے۔

۱۵۷۷۔ هَانَ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَهُوَ عَلَى غَيْرِهِ أَهْوَنُ.

(جو اپنے آپ کو ہلک سمجھے گا، وہ دوسروں کے لیے اور بھی زیادہ ہلکا ہوگا۔ اپنی عزت آپ۔

۱۵۷۸۔ مَنْ أَهَانَ مَالَهُ أَكْرَمَ نَفْسَهُ. (جو اپنے آپ کو ذلیل کرے گا وہ اپنے نفس کو معزز بنائیگا) جو مال خرچ کرے گا اس کو عزت حاصل ہوگی۔

۱۵۷۹۔ هَوْنٌ عَلَيْكَ وَلَا تَوَلَّ بِأَشْفَاقٍ رِيَاوَاهُ. (کہاؤں کے ہونے سے خوف نہ کر، جو جاتی ہے جانے دے آخر چھوڑنا ہے۔ اشتقاق: کم ہونا یا کم کرنا۔

۱۵۸۰۔ أَهْوَنُ مِنَ انْتِبَاحِ عَلَى السَّحَابِ. (بادلوں پر بھونکنے سے زیادہ ہلکا، جس کے کی کوئی قدر کرنے والا نہ ہو وہ بارشوں میں بھیکتا ہے اور جب بادل دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے۔

۱۵۸۱۔ أَهْوَنُ مِنْ قُعَيْسٍ عَلَى عَمَّتِهِ. (اس سے بھی زیادہ ہلکا

جتنا قعیس اپنی چھوچی کے نزدیک تھا) قعیس کو فہ کا ایک شخص سردیوں میں اپنی چھوچی سے ملنے آیا۔ مکان تنگ تھا چھوچی نے کتے کو اندر جگہ دی اور قعیس کو باہر سلایا اور وہ سردی سے مر گیا۔

۱۵۸۲۔ مَا أَهْوَنُ الْحَرْبِ عَلَى النَّظَارَةِ. (نماشہ دیکھنے والوں کے نزدیک لڑائی کتنی آسان ہے، نظارۃ: تماشا شانی۔

۱۵۸۳۔ إِنَّ الْهَوَانَ لَبَلِيَّةٌ مَرَامَةٌ. (کہنے کے لیے بے عزتی مہربانی ہے، وہ بے عزتی سے ٹھیک رہتا ہے۔ مہربانی کی توفیق کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا۔ مرامۃ: مہربانی۔ رافت

۱۵۸۴۔ إِنَّ الْهَوَى مِنَ التَّوَلَّى (محبت دوری سے ہوتی ہے، دوری محبت پیدا کرتی ہے، جو چیز روز نظر آئے اس سے طبیعت الٹا جاتی ہے۔

۱۵۸۵۔ إِنَّ الْهَوَى شَرُّكَ الْعُلَى. (محبت اندھے پن کی طرح ہے) اسی طرح کی ایک مثل ہے حُبُّكَ الشَّيْءُ يُعْبَى وَيُعِيْمُ (کسی چیز کی محبت تم کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے) محبوب کے عیوب دیکھنا سننا کسی طرح گوارا نہیں ہوتا،

۱۵۸۶۔ إِنَّ الْهَوَى الْهَوَانَ. (محبت ذلت کا نام ہے، اس راہ میں ذلتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔

۱۵۸۷۔ مَنْ هَابَ خَابَ. (جو ڈرنا کام ہوا۔)

۱۵۸۸۔ مَنْ هَابَ الرِّجَالَ تَهَيَّوْهُ. (جو لوگوں سے ڈرے گا لوگ اس کو ڈرائیں گے)

۶

۱۵۸۹۔ كَوْلَا الْوَتَامَ لَهْلَكَ الْأَنَامُ. (اگر موافقت نہ ہوتی تو لوگ ہلک ہو جاتے، ہر شخص دوسرے کو ہلک کرنے کی کوشش کرتا۔ ونام: موافقت۔

۱۵۹۰۔ سَاعَةٌ وَلَا كُلُّ سَاعَةٍ رَايَا كَهْرِي كِي تَكْلِفُ نَكْرَهُ. (گھڑی کی، دم بھر کی تکلیف ہے عمر بھر کی نہیں۔

۱۵۹۱۔ كَحْدِ أَجْدٍ بِشَفَرَةٍ مَحْزُورٍ. (دین نے چہرے کے لیے کاٹنے کی جگہ نہ پائی، یعنی میں نے معاملہ میں گنجائش نہ پائی۔

۱۵۹۲۔ قَدْ يُوجَدُ فِي الدَّهْرِ مَا لَا يُوجَدُ فِي الْبَحْرِ. (کبھی نہیں وہ چیز مل جاتی ہے جو سمندر میں نہیں ملتی۔

۱۵۹۳۔ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ. (بڑے ہم نشین سے

تسائی بہتر ہے)

دیکر مخاطب کے ساتھ مروی ہے، عصام نعمان کا دربان تھا، اس نے نابغہ شاعر کو جو نعمان کی عیادت کے لیے آیا تھا نعمان کے پاس جلنے سے روک دیا تھا۔ نابغہ نے اپنے قصیدہ کے ایک شعر میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: فَاَنْفِي لَّا اَلُوْهُمُكَ فِي دُخُوْلٍ وَلَا كُوْنُ مَا دُوْرَاكَ يَاعِصَامُ۔ (میں داخل ہونے کے سلسلے میں تجھے ملامت نہیں کرتا۔ مگر اے عصام یہ تو بتلا دے کہ تیرے پیچھے کا کیا حال ہے؟) یعنی نعمان کا کیا حال ہے۔ دُوْرَاكَ: بکسر کاف (مخاطب مژنٹ) بھی منقول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حارث بن عمر و شاہ کندہ نے ایک عورت عصام کے ذریعے عوف شیبانی کی لڑکی کے لیے شادی کا پیغام بھیجا جو عقل و جمال کے اعتبار سے اپنے زمانہ کی ممتاز لڑکی تھی، عصام، عوف کے پاس سے واپس ہوئی تو حارث نے دور ہی سے پوچھا: مَا دُوْرَاكَ يَاعِصَامُ؟ ادھر کی کیا خبر ہے اے عصام؟

۱۶۰۴۔ اَوْرَدَتْ مَا كَحْ تَصْبِيْدٍ۔ (تو نے وہ چیز اتاری ہے جس کو واپس نہیں کر سکتا، ایسی بری بات کہی ہے جو واپس نہیں ہو سکتی یا ایسی غلطی کی ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔

۱۶۰۵۔ حَتَّى يَرِدَ الصَّبَبُ۔ (ریاں تک کہ گودہ پانی پیئے) مشہور ہے کہ گودہ کبھی پانی نہیں پیتی۔

۱۶۰۶۔ مَا هَكَذَا تُوْرِدِيَا سَعْدَ الْاِبِلِ۔ (اے سعد! اس طرح اونٹوں کو پانی نہیں پلایا جاتا، یعنی معاملات کو اس بڑے طریقے سے انجام نہیں دیا جاتا۔ مالک بن زید، مائتہ بن تیم نے اپنے بھائی سعد کو بے پروائی سے اونٹوں کو پانی پلانے پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

۱۶۰۷۔ هَذَا اَوَّلُ مَا تَرَدَّدْتُمْ اَمَامَهُ۔ (یہ گھبراہٹ! حالاکہ ابھی مکہ دور ہے) کسی معاملے کے پیش آنے سے پہلے گھبراہٹ۔ اسی طرح ایک شعر ہے: اَشْوَقَاوْ لَمَّا مَضَى اِلَيْهِ لَيْلَةٌ فَكَلِمَتٌ اِذَا اَسَارَ الْمَطْلُ بِنَا عَشْرًا۔ (اتنا شوق؟ حالاکہ ابھی میری ایک رات بھی نہیں گزری، اس وقت کیا حال ہو گا جب سواری ہم کو دس راتوں تک لے جائے گی)

۱۶۰۸۔ مُوْرِدُ الْجَهْلِ وَبِئْسَ الْمَنْهَلُ۔ (جہات کا گھاٹ نا خوشگوار پانی پینے کی جگہ۔ دُوبی: کھانے میں نا خوشگوار اور نہ پینے والی چیز۔

۱۶۰۹۔ دَارِ سَطَةِ الْفِلَادَةِ۔ (ہمارے سب سے بڑا دانہ) اپنے اشل میں سب پر فائق۔

۱۶۱۰۔ اَوَسَّعْتُمْ مَسَاوَا دُوْرًا بِالْاِبِلِ۔ (گایاں تو بہت کھل کر دیں

۱۵۹۲۔ دَخْنِي بِلَا حَبْلٍ۔ (حل کے بغیر مختلف اشیاء کی خواہش کرنے والی) ایام حل میں طرح طرح کی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ نسل ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ہر اچھی چیز کا ذکر سن کر اس کی خواہش کرے یا لالچ کی وجہ سے بے ضرورت مانگتا پھرے۔ دَخْنِي: وہ عورت جو ایام حل میں مختلف چیزیں کھانے کی خواہش کرے۔

۱۵۹۵۔ دَعُ عَنَّا بَنِيَّاتِ الطَّرِيقِ۔ (شاخ در شاخ راستوں کو چھوڑ کر واضح راہ اختیار کرو۔ بنیات الطریق: وہ چھوٹے چھوٹے راستے جو کبھی بڑے راستے سے نکلے ہوں۔

۱۵۹۶۔ دَعُ الْعَوْرَاءَ تَخْطَاكَ۔ (بُری چیز کو چھوڑ دو کہ تم سے تجاوز کر جائے، عَوْرَاءَ: بُری خصلت، کمزیر، تخطاک: یعنی تجھے چھوڑ کر آگے نکل جائے کہا جاتا ہے کہ یہ اہل عرب کی سب سے زیادہ چمکتی نسل ہے۔

۱۵۹۷۔ دَعُ الْقَطَا بِنَحْمٍ وَشَرِّ يَبُوءُ۔ (قطا کو سو جانے دو اور شر کو گزر جانے دو) کام کا مناسب موقع آنے تک اطمینان سے بیٹھو۔

۱۵۹۸۔ دَعُ اللُّؤْمَ اِنَّ اللُّؤْمَ عَيْنُ التَّوَّابِ۔ (لامت چھوڑو، لامت کرنا مصائب کا معین و مددگار ہے۔)

۱۵۹۹۔ دَعُ مَالًا مُّوْرَعًا۔ (مال کو اس کے ودیعت رکھنے والے ہی نے چھوڑ دیا، ممکن ہے وہ واپس نہ ملے "جو ہاتھ سے نکلا وہ واپس نہ آتا۔"

۱۶۰۰۔ بِكُلِّ دَارٍ بَنُو سَعْدٍ۔ (ہر وادی میں بنو سعد ہی ہیں) بنو سعد کے ایک شخص اصبط بن ترجیع نے اپنی قوم کی ناپسندیدہ باتیں دیکھ کر ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور جب دوسروں میں بھی اس طرح کی باتیں دیکھیں تو اپنی قوم میں واپس آ گیا اور کہا کہ ہر وادی میں بنو سعد رہتے ہیں۔ یہ نسل ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کسی وجہ سے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جائے اور وہاں بھی ایسی ہی چیز سے واسطہ پڑے۔

۱۶۰۱۔ بِكُلِّ دَارٍ اَتَرُ حَيْثُ تَعْلَبُكَ۔ (ہر وادی میں نئی تعلیق کا اثر موجود ہے) یہ بنی ثعلبہ کے ایک شخص کا مقولہ ہے جو اپنی قوم کے آزاد سے بچ کر دوسرے لوگوں میں گیا اور وہاں بھی اس کو وہی کچھ پیش آیا۔

۱۶۰۲۔ دَعَاكَ اَوْ سَمِعَ لَكَ۔ (تیرے پیچھے تیرے لیے زیادہ وسیع معاملہ ہے) جو چھوڑ کر آئے ہو اس میں زیادہ گنجائش ہے۔

۱۶۰۳۔ مَا دُوْرَاكَ اَوْ دُوْرَاكَ يَاعِصَامُ۔ (تیرے پیچھے کیا ہے اے عصام؟) جہاں سے آ رہے ہو وہاں کے کیا احوال ہیں؟ دُوْرَاكَ: فسخ کاف

حالانکہ وہ اونٹوں کو لے ہی گئے، کعب بن زہیر کا مقولہ ہے (حادث بن ورقانے کعب کے باپ زہیر کے اونٹوں پر ڈاکہ ڈالا اور چرواہے سمیت پکڑ کر لے گیا تو زہیر نے اس کی بجوئی، جی بھر کے گالیاں دیں، دھکیاں دیں، اس کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا۔ مگر حادث نے پرواہ ہی نہ کی تو کعب نے اپنے باپ سے کہا تھا۔

۱۶۱۱۔ لَتَسْعَ الْخُوقُ عَلَى التَّائِقِ۔ (بھٹن، جوڑنے والے پر وسیع ہوگئی، فساد اتنا بڑھ گیا ہے کہ اصلاح کا موقع جاتا رہا۔

۱۶۱۲۔ فِي سَعَةِ الْأَخْلَاقِ كُنُوسُ الْأَرْزَاقِ۔ (وسعت اخلاق میں رزق کے خزانے ہیں، خوش اخلاق بھوکا نہیں رہتا۔

۱۶۱۳۔ كُنْ دُجَىٰ نَفْسِكَ۔ (اپنے نفس کا دھی بن کر)

۱۶۱۴۔ إِنَّ الْأَوْصِيَّ بْنُ سَهْوَانَ۔ (وصیت کیے ہوئے لوگ آدم کی اولاد ہیں) وصیت کے باوجود بھول جانا ان کا ورثہ ہے۔ سہوان: بھولنے والا۔ مراد حضرت آدمؑ جن کو ہدایت کی گئی اور وہ بھول گئے۔

۱۶۱۵۔ أَيْنَ يَضُمُّ الْمُخَوِّقُ يَدَهُ۔ (گلا گھونٹا ہوا اپنا ہاتھ کہاں رکھے)

۱۶۱۶۔ ضَمَّ الْفَاسُ فِي التَّوَارِثِ۔ (تیشہ کو سر میں رکھ دے) موقع کو غنیمت سمجھو اور اپنا کام جلد پورا کر لو۔

۱۶۱۷۔ وَعْدُ الْكَرِيمِ دَيْنٌ۔ (سنی کا وعدہ قرض ہے)

۱۶۱۸۔ وَعْدُ بِلَادٍ دَفَاءٌ عَدَاوَةٌ بِلَا سَبَبٍ۔ (وعدہ پورا نہ کرنا بلا وجہ کی دشمنی مول لینا ہے)

۱۶۱۹۔ اِعْدَةُ عَظِيمَةٍ۔ (وعدہ عطیہ کی طرح ہے، واپس لینا یعنی پورا نہ کرنا برابر ہے)

۱۶۲۰۔ هُوَ اَعْيَدُ عُرْقُوبٍ۔ (عرقوب کے وعدے، عرقوب عمالقہ میں سے ایک شخص عرقوب نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ کھجور میں پھول آجائیں تو وہ تیرے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ وعدہ پھل آنے،

گدرانے، سبکے اور خشک ہو کر چھوٹا رہے بن جانے پر ٹلٹل رہا۔ اور آخر میں عرقوب نے سب خود رکھ لیے اور اپنے بھائی کو کچھ نہ

دیا۔ اس لیے وعدہ خلافی میں ضرب المثل ہو گیا۔

۱۶۲۱۔ وَافَقَ شَيْءٌ طَبَقَهُ أَوْ طَبَقَهُ۔ (چمچے کا ظرف لپچے

غلاف کے موافق ہو گیا یا شے طبقہ کے موافق ہو گیا۔) دونوں ایک جیسے ہو گئے یا ایک جیسے مل گئے۔ اصمعی نے کہا ہے کہ شے چمچے

کا برتن ہوتا ہے، جب سُکڑ جاتا ہے تو اس پر ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ بعض ماہرین لغت کا بیان ہے کہ شے وانا و عقلمند لوگوں میں سے ایک انتہائی عقلمند شخص تھا، اس نے یہ عند کیا کہ اپنے ہی جیسی عقلمند

عورت سے شادی کر لیا، ایسی لڑکی کی تلاش میں وہ شہر بشہر گھومتا رہا۔ اتفاقاً ایک سفر میں جو اپنے وطن جا رہا تھا، اس کا رفیق

سفر ہوا۔ دونوں اپنی سواریوں پر جا رہے تھے کہ شے نے کہا کہ میں تجھے اٹھا کر چلوں یا تجھے اٹھا کر لے چلے گا۔ ساتھی نے شے کو

اجتہاد سمجھا، اس لیے کہ دونوں سواری تھے۔ مگر شے کا مطلب یہ تھا کہ سہراسانی سے ملے کرنے کے لیے میں کوئی بات چھیڑوں یا تم

کوئی بات شروع کرو گے، دونوں ایک کھلیان کے پاس سے گزرے تو شے نے پوچھا کہ یہ کھیتی کھائی جا چکی ہے یا نہیں؟

ایک جنازہ دیکھ تو شے نے پوچھا کہ اس چارپائی پر کوئی زندہ ہے یا مردہ؟ یعنی اس کے نام کو زندہ رکھنے والی اولاد یا

درخت ہیں یا کوئی نہیں، شے کا رفیق سفران تمام سوالات پر شے کو بے وقوف سمجھتا رہا اور جب اس کو اپنے ساتھ گھر لے گیا

تو اپنی لڑکی کلبقہ سے شے کے احمقانہ سوالات کا ذکر کیا۔ لڑکی نے سن کر کہا اسے باپ یہ تو نہایت عقلمند آدمی ہے، اس کے تمام

سوالات کا مطلب یہ تھا۔ شے کے رفیق نے لڑکی کی باتیں نقل کیں تو شے نے اس کو نکاح کا پیغام دیا اور اس سے شادی

کر لی۔ جب شے کے گھر والوں نے طبقہ کی ضمانت دیکھی تو کہنے لگے کہ شے طبقہ کے موافق پڑا۔ یا شے نے طبقہ کو پایا۔ اور یہ

قول ضرب المثل ہو گیا۔

۱۶۲۲۔ إِنَّ لَكَ يَكُنْ وَفَاقٌ فِقْرَاقٌ (موافقت نہ ہو تو جدائی بہتر ہے)

۱۶۲۳۔ أَوْ فِي مِنَ السَّمَوَاتِ۔ (سماوات سے زیادہ وفادار) سوال کے پاس امراء القیس بن حجر کندی نے دم جاتے ہوئے اپنی

زریں امانت رکھی تھیں۔ امراء القیس مر گیا تو والی شام نے سوال سے وہ زریں طلب کیں، اور اس کے انکار پر چڑھائی کر دی۔

سوال اپنے قلعے میں محصور ہو کر بیٹھ گیا۔ والی شام نے سوال کے لڑکے کو قلعہ سے باہر لے گیا تھا طلب کر لیا اور سوال کو اس

۱۶۳۳۔ اَوْهَنْ مِنْ بَيْتِ الْكَفْكَبُوتِ۔ (کڑی کے جالے سے
زیادہ کمزور)

۱۶۳۴۔ عِنْدَكَ وَهْيٌ قَارٌ قَعِيْبٌ۔ (تیرے پاس بھی پھٹا ہوا ہے
پہلے اس کو پیوند لگا، پہلے اپنے بچے کو سیو، یعنی اپنے عیوب
کو دیکھو۔)

۱۶۳۵۔ وَبِئْسَ لِلْخَسُودِ مِنْ حَسَدٍ ۝۵۔ (حاسد پر اس کے حسد کی
وجہ سے ہی ہلاکت آتی ہے)

۱۶۳۶۔ وَبِئْسَ لِلرَّاسِ مِنَ اللِّسَانِ۔ (سر کی ہلاکت زبان کے سبب
سے ہوتی ہے، زبان درازی کی وجہ سے سر پھوٹتے ہیں۔)

۱۶۳۷۔ وَبِئْسَ لِلشَّيْخِي مِنَ الْخُلْيِی۔ (علمین کے لیے بے غم لوگوں کی
وجہ سے مصیبت ہے، سب ایک سے ہوتے تو اتنا غم محسوس
نہ ہوتا۔ یا بے غم آدمی تسلی دینے کے بجائے ملامت کرتا ہے
اور غمزدہ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ خُلْيٰی: فارغ دل۔
شُخْی: رنج و غم میں مشغول قلب۔)

۱۶۳۸۔ وَبِئْسَ لِعَالِمٍ اَمْرٍ مِنْ جَاهِلٍ ۝۶۔ (دنہ جاننے والے کے
مقابلے میں جاننے والے کی مصیبت ہے)

۱۶۳۹۔ وَبِئْسَ اَهْوَنُ مِنْ وَبْلَیْنِ۔ (ایک شر و دُشمنوں سے زیادہ
آسان ہے، دُشمن ہوتے تو ناقابل برداشت ہو جاتے۔)

یٰ

۱۶۴۰۔ اَيُّ اَسْمٍ مِنْ غَرِیْقٍ۔ (دُشمنے والے سے زیادہ ناامید)

۱۶۴۱۔ يٰۤاَيُّ الْاُخْرٰی مِنْ اَنْۢ۔ (شریف کا ہاتھ ترازو ہے)

۱۶۴۲۔ يٰۤاَيُّ تَشْبَعٍ وَاُخْرٰی مِنْكَ تَأْسُوْنِی۔ (تیرا ایک ہاتھ
زخمی کرتا ہے اور دوسرا مرہم لگاتا ہے)

۱۶۴۳۔ دَمَا مِنْ يَدٍ اِلَّا يَدُ اللّٰهِ فَوْقَهَا۔ (کوئی ہاتھ ایسا نہیں
جس کے اوپر خدا کا ہاتھ ہو)

۱۶۴۴۔ يٰۤاَيُّكَ مِنْكَ وَاِنْ كَانَتْ شَلَاۤءٌ۔ (تیرا ہاتھ تیرا
ہی ہے اگرچہ وہ بیکار ہو چکا ہو۔ اس ضرب افش کی طرح ہے:
اَنْفَكَ مِنْكَ وَاِنْ كَانَ اَجْدَع (تیرا ناک تیرا ہی جُڑے

کے قتل کرنے کی دھمکی دی لیکن سَمُوَال نے پھر بھی امراء القیس کی امانت
اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر دُائی شام نے سَمُوَال کی
آنکھوں کے سامنے اس کے رٹکے کو ذبح کر دیا اور ناکام واپس
ہو گیا۔ حج کے زمانہ میں جب لوگ جمع ہوئے تو سَمُوَال نے
امراء القیس کے دربار کو تلاش کر کے امانت ان کے حوالے کر دی۔
سَمُوَال کا ایک مشہور شعر ہے ۵۔

اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَدْرَسْ مِنَ الْكُؤْمِ عَرْضُهُ فُكُلٌ رَوَاعٍ يَزِيدُ بَرَجْمِيْنَ
(جب آدمی کی آبرو کینگی سے ملوث نہ ہو تو جو چادر بھی وہ پہن لے
گیا خوبصورت ہے)

۱۶۴۴۔ لَا تَقْعَقِ الْبُيُوتَ اِلَّا سَابِغًا۔ (دریا میں اس وقت کودو جب
تیرنا جانتے ہو، کسی معاملہ میں اس وقت پڑو جب اس سے عمدہ برآ
ہونے کی صلاحیت رکھتے ہو۔)

۱۶۴۵۔ وَدَقَّتْ تَحْتِ الْمِيزَابِ وَفَزَمِنَ السَّطِلِ۔ (بارش سے
بھاگا، پینالہ کے نیچے جا کھڑا ہوا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔)

۱۶۴۶۔ اِتَّقِ شَرَّ مَنْ اَحْسَنَتْ اِلَيْهِ۔ (جس کے ساتھ تم نے
احسان کیا ہو اس کے شر سے بھی بچتے رہو اسی کے ہم معنی ہے:

۱۶۴۷۔ سَمِعْتُ كَلْبِكَ يَا كَلْبُكَ، (اپنے کتے کو مولا کرو وہ تمہیں
کھائے گا)

۱۶۴۸۔ قَدْ يَتَوَقَّى السَّيْفُ وَهُوَ مُخَمَّدٌ۔ (کبھی میان میں ہوتے
ہوئے بھی تلوار سے خوف کیا جاتا ہے)

۱۶۴۹۔ مَنِ اَتَكَلَ عَلَى رَاۤءِ غَيْرِهِ طَالَ جُوعُهُ، (جو غیر کے
توشے پر بھروسہ کرے گا اس کی بھوک طویل ہوگی۔)

۱۶۵۰۔ لَا تَلِدُ الدَّيْبَةُ اِلَّا دُيْبًا۔ (بھیرن بھیر یا بی جنے کی بھیر پڑے
کا بچہ بھیر یا بی ہوتا ہے۔ عاقبت گرگ زادہ گرگ شود۔)

۱۶۵۱۔ هَلْ تَلِدُ الْحَيَّةُ اِلَّا الْحَيَّةَ۔ (کیا سانپن سانپ کے
علاوہ اور کوئی بچہ دے سکتی ہے؟ سانپ کا بچہ سپو بیا۔)

۱۶۵۲۔ دَلَّ حَاۤءُهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا۔ (معاملہ کے گرم حال کو بھی
اس کے سپرد کردو جو سرد حال کا مالک ہے، اچھا پہلو جس کے

سپر دیکھا ہے بُرا پہلو بھی اسی کے سپرد کردو۔ یا جو نفع اٹھاتا
رہا وہی بوجھ اور نقصان بھی اٹھائے، اہل عرب کے نزدیک
گرم چیز بُری اور ٹھنڈی چیز اچھی سمجھی جاتی ہے۔ حَاۤءُ النَّمْلِ:

اگرچہ وہ کئی ہوئی کیوں نہ ہو

۱۶۴۵۔ یَسِدَیْ لَا یَبْدُیْكَ عَمْرُو۔

(اپنے ہاتھ سے تیرے ہاتھوں نہیں اسے عمرو) ابنہ الزباء کا مقولہ ہے جو کہ قنسرین اور جزیرہ کی حکمران تھی۔ جب وہ قیصر اور عمرو کے ہاتھ میں پھنس گئی تو ان کے ہاتھوں قتل ہونے کی بہ نسبت اپنی انگوٹھی چوس کر مر جانا پسند کیا۔

۱۶۴۶۔ هُمْ عَلَيْهِ يَدٌ وَاحِدَةٌ۔ (وہ سب اس پر متفق ہیں)

۱۶۴۷۔ هُوَ عِنْدِي بِالْيَمِينِ۔

(وہ میرے نزدیک مبارک اور شریف مرتبہ ہے)

۱۶۴۸۔ يَوْمَ السُّرُورِ قَصْبٌ۔ (خوشی کا دن چھوٹا ہوتا ہے)

۱۶۴۹۔ يَوْمَ لَنَا وَيَوْمَ عَلَيْنَا۔

(ایک دن ہمارے موافق ہوتا ہے اور ایک دن مخالف)

۱۶۵۰۔ اَيُّوْمُ حَمْدٍ وَغَدًا اَمْرٌ۔

آج شراب ہے تو کل ایک اہم معاملہ، آج کا دن سرور و نشاط کا ہے تو کل جنگ اور معرکہ پیش آئے گا۔ امراء القیس بن جھرکندی کا مقولہ ہے جس کے باپ نے شعر گوئی اور عاشقہ کی وجہ سے اس کو نکال دیا تھا۔ وہ یمن چلا گیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ بعد اور عجل نے اس کو خبر دی کہ اس کے باپ کو بنواسد نے قتل کر دیا ہے۔ امراء القیس نے کہا کہ چھوٹی عمر میں باپ نے مجھے ضائع کر دیا، لیکن مجھ پر اس کے خون کی ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ آج تو نشہ سے آفاقہ نہیں ہوگا

لیکن کل سے شراب ہی نہ ہوگی۔ آج شراب کا دن ہے اور کل اہم معاملہ (جنگ)، درپیش ہے۔ امراء القیس کا یہ مقولہ ضرب المثل بن گیا۔

۱۶۵۱۔ الْيَوْمَ سَلَامٌ وَغَدًا كَلَامٌ۔

(آج سلام ہے اور کل کلام ہوگا۔)

۱۶۵۲۔ مَا يَوْمٌ حَلِيْمَةٌ كَسِيْرٌ۔

دیوم حلیمہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے، مشہور معروف معاملہ ہے۔ یوم حلیمہ: عرب کی مشہور ترین جنگ ہے جس میں منذر بن ماء السماء مارا گیا تھا۔ یہ حلیمہ حارث بن ابی شمر نے منذر بن ماء السماء پر لشکر کشی کی تھی اور حارث کی لڑکی حلیمہ نے اس ہم پر جانے والوں کے خوشبو لگائی تھی، اسی کے نام سے یہ معرکہ شروع ہو گیا۔

۱۶۵۳۔ اِنَّ مِنَ الْيَوْمِ اَيَّوَةً۔

یقیناً دن کا آخری حصہ بھی اسی دن کا جز ہے تاخیر کے باوجود دن تو وہی ہے۔ وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے کسی کو حصہ نہ دیا جانے تو تاخیر سے آنی والا کہتا ہے، ان من ایوم آخرہ (دن کا آخری حصہ بھی تو دن کا جز ہے یعنی صبح نہ اسکا تو شام بھی تو اسی دن کا جز ہے)۔

۱۶۵۴۔ اِنَّ صَعَ الْيَوْمِ غَدًا يَا مُسْجِدَةً۔

دائے مسجد! آج کے ساتھ آنے والی کل بھی ہے، کل بھی تو ہوگی اور آج کے حالات کل نہ رہیں گے۔ ٹالنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے یعنی جلدی کیا ہے کل بھی تو آئے گی۔

ضمیمہ المنجد اُردو

یعنی

لغاتِ جدیدہ

عربی سے اُردو

ممالک عربیہ میں مستعمل جدید عربی الفاظ و اصلاحات کا
نہایت کار آمد مرقع جو المنجد جدید اور القاموس العصری
اور عسکری اخبارات و رسائل سے منتخب کئے گئے ہیں

ناشر

دارالاشاعت

مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی ۱

الف

ابو۔ اَبْنَةُ دَوَائِيَّة، انجکشن اَبْرَمِل۔ ماہ اپریل اَبْرَنِق۔ جگ۔ لٹوا۔ اَبْرِيق الشای۔ چائے دان ابن۔ تَابِنِق۔ تعزیتی۔ ماتمی حفلة التابین۔ ماتمی جلسہ اثاث۔ اثاث۔ فرنیچر گھر کے سامان ج۔ اثاث۔ اَثَث۔ فرنیچر لگانا۔ سامان سے آراستہ کرنا۔ اَثَر۔ آثَرِق۔ آثار قدیمہ سے متعلق ماہر آثار قدیمہ مَاشَرَق۔ کارنامہ ج۔ مَاشَر اَثیر۔ اَثیر۔ ایک بے وزن لطیف ماہ اَشم۔ اَشِیم۔ اَشِیم۔ مجرم مجرمانہ اجہ۔ اُجَرَق۔ کرایہ ج۔ اُجود اجرة النقل۔ محصول ٹرانسپورٹ اجل۔ اَجَل۔ . . . اَجَلًا۔ ملتوی ہونا اَجَل۔ تَاجِلًا۔ ملتوی کرنا تَاجِیل۔ التواء احد۔ اکائی ج۔ آحاد اَحَدِیَّة۔ اکائی سے متعلق اخذ۔ اَخَذ۔ مسور کن۔ دل گیر، جاذب اخذ۔ اَخذ۔ تاخیر۔ لیٹ کرنا، پیچھے کرنا، دست کرنا تاخیر۔ گھڑی کہ پیچھے ہونا، لیٹ ہونا قوم و ملک کا پس ماندہ ہونا۔ مُؤَخَّرًا۔ پیچھے والوں۔ کچھ عرصہ قبل اخذ۔ ا۔ حال ہی میں۔ اخیر میں مُتَأَخِّرَات۔ تباہی جات حساب ادب۔ آداب۔ علوم و معارف، لٹریچر	مَآذِیَّة۔ ضیافت۔ دعوت طعام ج۔ مَآدِب ادی۔ آدَاة ج۔ ادوات۔ کل پرزے ادَوَاتُ الْيَكْتَابَةِ۔ اسٹنری۔ ادَوَاتُ مُتَعَلِّقَةٌ سَامَان، مواد لوازم، میٹل اِذْنٌ۔ پرمٹ، لائسنس، اجازت نامہ پاس۔ اِذْنٌ بَرِید۔ پوسٹل آرڈر اِذْنٌ مُدَوَّر۔ پاس اِذْنٌ سِکَن۔ ریلوے سگنل مَآذُون۔ سند یافتہ، اجازت یافتہ المَآذُونِیَّة۔ علوم مالیہ کی سند قانون کی سند، ڈگری۔ ارد۔ اَرْدَوَاز۔ سلیٹ قلم اَرْدَوَاز۔ سلیٹ پنسل ارس۔ اَرَسْتَقْرَاطِیَّة۔ معزز اور شریف لوگوں کا طبقہ۔ وہ ارسطو جی اذق۔ مَآزِق۔ نازک صورت حال۔ خطرناک پوزیشن۔ ارض۔ اَرْضِیَّة۔ فرش، زمین، ہر وہ جگہ جس پر پیر رکھے جاسکیں۔ اَرْضِیَّة الصَّوَر۔ بیک گراؤنڈ۔ پس منظر۔ ازہ۔ اَزْمَة۔ کرائس، بحران۔ جہ اَزْمَات ازمۃ اقتصادِیۃ مالی بحران ازمۃ سیاسیۃ سیاسی بحران تَاْزِه۔ بحران کا شکار ہونا۔ مہمات کا نازک صورت اختیار کرنا۔ اس۔ اَسَاسِی۔ بنیادی	تَاسِیْسِی، بنیادی مَجْلِیس تَاسِیْسِی۔ مجلس قانون ساز۔ مُؤَسَّسَة۔ سیاسی، تجارتی، علمی اور وفاقی ادارہ۔ ج۔ مُؤَسَّسَات۔ اسب۔ اَسْبِیرِین۔ اسپر است۔ اَسْتَوْدِیو۔ اسٹوڈیو تصویر کشی یا فلم سازی کا مقام اسر۔ مَأمُورَة۔ تنگی۔ پاب اسط۔ اَسْطَوَانَة۔ (گراموفون کا) ریکارڈ۔ ج۔ اسطوانات (۲) اخبار کا کالم اَسْفَلْت۔ ڈامر اسکملہ۔ اسٹول اسٹنٹ۔ سمنٹ اسی۔ آسیا۔ ایشیا۔ آسیا الصغریٰ۔ ایشیا کچھ آسٹری۔ ایشیائی۔ مَاسَاة۔ ٹریجڈی۔ المناک حادثہ ج۔ مَاسِی اطر۔ اَطَار۔ فریم۔ ج۔ اَطَر اقر۔ اَفْرِیز۔ کابنس۔ افاریز افق۔ اَقَاق۔ جہانگیرہ۔ سیاح اَفْقِی۔ سطح۔ چپٹا۔ افقی سمت کا آفندی۔ مشر۔ صاحب اقلید۔ اِقلید۔ ملک صوبہ۔ علاقہ اکد تاکیداً یقین دلانا۔ وثوق کرنا الی۔ آلۃ۔ مشین۔ اوزار۔ ذریعہ عمل ج آلات آلۃ مَحَرِّکَة۔ انجن۔
---	---	---

آلة الخیالة سینے کی مشین۔ آلة القصود کیمہ۔ آلتہ کا تبقہ نائب رابطہ۔ الائی۔ ریجنٹ، فوج کی ایک جماعت آلف تالیف جماعت یا وزارت وغیرہ کی تشکیل کرنا۔ امب۔ امبرالیہ امپریل ازم امبراطور۔ امپیر، شہنشاہ، راجہ۔ امبراطوریہ۔ مملکت، امپریس امبراطوریہ۔ شہنشاہیت امبر۔ اِمادۃ۔ ریاست۔ اسٹیٹ۔ امیر۔ حاکم، صدر، بیڈ، شاہزادہ امیرالائی۔ کرنل، ایک فوجی جرنل کا اعلیٰ افسر۔ امیرال۔ افسر جمادات، افسر بحریہ۔ امیرالیتواء۔ برگیدیر جنرل امیرنی سرکاری، ریاستی، شاہی۔ استمادۃ سادہ فارم مؤامدۃ سازش مامور ماتحت، محکوم، ملازم۔ ماموریتہ مہم، مشن، ڈیوٹی۔ مؤتمر کانفرنس، کنونشن، مشاورتی اجتماع۔ ج۔ مؤتمرات امم۔ امتہ۔ قوم، عوام، ملک امم۔ تانبیک قومیا، قومی ملکیت میں لینا۔ امتیق بن الاقوامی، انٹرنیشنل امن۔ امتن علی الحیاء۔ زندگی کا بیمہ کرنا تامین بیمہ۔ ضمانت ج۔ تانبیک تامین علی الحیاء لائف انشورنس امانۃ نظامت۔ معتمدی امین۔ ناظم، سکریٹری، لائبریرین حسراچی۔ ج۔ اُمناء امی۔ اُمید کا۔ امریکا۔ تاموٹ۔ امریکی باشندگی اختیار کرنا	انب۔ اُنباشی۔ کارپول، دس فوجی سپاہیوں کا افسر۔ انبوبیتہ۔ پائپ جو انا بلیب۔ انت۔ انٹوٹی۔ زمانہ، نسوانی انوتہ۔ نسوانیت، زنانہ پن انج۔ انجلیڈ۔ انگریز انس۔ انیسۃ۔ مس، نوجوان خاتون جو آئسات انف۔ استیناف۔ مقدمہ کی اپیل مستائف اپیل کنندہ۔ انس۔ انووڈج، نووڈج۔ نمونہ طرز۔ ماڈل۔ ج۔ نمادج۔ انی۔ اناۃ۔ صبر، انتظار اہل۔ اہلی۔ خانگی، ملکی، شہری مؤہلات۔ علمی یاق، صلاحیت کالیفیکیشن۔ اھالی۔ باشندگان، عوام اوت۔ اوتنبیل۔ موٹر کار اوس۔ اوسطۃ۔ بلالین، ایک ہزار سپاہیوں کی جماعت۔ اورنیک۔ سادہ فارم اوراق۔ کاغذات، پرچے اوراق التبعین کاغذات نامزدگی اودتیا لیرپ اودتی۔ یورپین، یورپ کا اوق۔ اوقیۃ۔ آؤنس، مسادی پہ پرنڈ۔ اوصۃ۔ مکہ ج۔ اوصات اومباشی۔ دفعہ دار، فوج کا ایک پھوٹا عہدہ دار جس کے تحت دس سپاہی ہوتے ہیں۔ ایوان۔ ہل، الابی پبلک ہل، محل ایار۔ رومی مہینہ مطابق مئی۔ ایٹالیا۔ ملک اٹلی۔ ایلول رومی مہینہ مطابق ستمبر۔	ایالة۔ صوبہ (ترکی لفظ) ب باتالوجیا۔ علم العلاج۔ علم ترکیب ادویہ بارنامہ۔ بزننامہ، پروگرام، غرست بارومتز۔ ہیرومیٹر، آلہ باد پیمائش۔ بارہمان۔ ہرلیمان۔ پارلنٹ بارودۃ۔ ہندوق۔ باشکید۔ تولیہ (دارچہ) باصۃ بس۔ ج۔ باصات بالوۃ۔ گزہ نالہ، گندی نالی۔ بالون۔ بخارہ (مع) بیماسۃ۔ پٹارس (مع) بجٹ۔ تحقیق، مطالعہ، ریسرچ۔ ج۔ آبجکٹ، بجٹ باحث وبحثۃ۔ محقق مبحث موضوع تحقیق و مطالعہ ج۔ قباحث بحر۔ بحارۃ۔ جہاز رانی، کشتی رانی لامی، سمندری سفر کی مہارت۔ بحریتی و تجارتۃ و تجارت ملاح جہاز ران۔ بحریۃ بحری طاقت، نیرو بحریۃ۔ جہیل بحریۃ بحریۃ۔ بحری، سرخ، بحریۃ دشاۃ۔ آبپاشی۔ بحر۔ بخار، بھاپ، اسٹیم، گیس باخذۃ۔ سمندری جہاز، اسٹیم ج۔ بواخی۔ بد۔ مبداء۔ قاعدہ، اصل، بنیاد۔ ج۔ مبادی مبتدائی۔ بنیادی، اصولی، قانونی مبتدائی۔ اصولی طور پر، بنیادی طور پر بدا۔ استبداد۔ مطلق العنان ہونا خود مختار و خود رائے ہونا۔
--	--	--

بدل - بدلہ الاشدات - رالیا، انکار بدلتہ ثياب - سوٹ، کپڑا کا جوڑا جہ - بدلات بدال (۱) قرآن - بکتر تبدیل کرنا والا (۲) اشیاء پر مبنی فروخت کر کے لے والا پرچون فروش - تبادلۃ التلیفون - ٹیلیفون اکسچینج جہ بدلات تبادل و مبادلۃ التبادل بدلتہ ثياب - کپڑا کا جوڑا، سوٹ بدلتہ سہوہ - خام کا لباس بدلتہ رسمیتہ - سرکاری دھڑی سرو - بڑا دعا - لاشنس، صفائی چٹکارا، خلاصی بڑائی - بیرونی برتقال - پرنگال برد - بڑا د فیڑ بڑاؤ الشای - چار دان ٹی پاٹ بڑا دۃ - ریفریجریٹر - ٹھنڈا کرنے کی مشین - جہ بڑادات بڑادیۃ - کور، ٹھنڈا کرنے کا کبس برودۃ و بارودۃ - بندوق برید - ڈاک (۲) پوسٹ میں برید عادی - معمولی ڈاک برید مستعجل - اکسپریس ڈاک برید قی - ڈاک سے متعلق ابواد - ڈاک بھیجا - بڑس - بڑیرا، جائز قرار دینا، برکت مبترس - وجہ جواز جہ مبتررات لا بترتر - ناقابل عفو بوش - پائمان بوشوق - پیراشوٹ برطلۃ - رشوت دینا تبطل، رشوت لینا برطلۃ، چھتری	سرو ۶ - تبدل بالمال، چندہ دنیا تبدل، چندہ، عطیہ جہ تبدعات مستبدع، چندہ دیندہ برق - برقیۃ - تار، ٹیلی گرام ابراق - تار دنیا - برکاد - پرکار تبرلیان - پارلنٹ برنامہ - پروگرام، ندرت برنیطۃ - ہیٹ برواڈ - چوکنا، فریم - بروی - بڑا سیٹ - قلم کواش مباراۃ - پیچ، ٹورنامنٹ - مقابلہ بڑ - بڑاؤ الاطفال، دودھ کی شیشی بسط - بساطۃ، سادگی، صاف دلی بسیط - معمولی، سادہ، سہل لبشو - باشرا العمل - کام پر لگنا، خود انجام دینا مبناکرتۃ، براہ راست - بلا واسطہ مدرپر - ڈائریکٹ - مبشر - مذہبی دافعہ، مشنری بصر - مبصرا، ٹیلی ویژن سیٹ، آلغاب بینی - بطل - سرو، شامسوار - جہ ابطال بطلۃ - بیکاری - بے روزگاری بعث، پیغام - نمائندہ - جہ بعوث بعثۃ مشن، ڈیلیگیشن - نمائندہ وفد - جہ بعثات مبعوث - نمائندہ - پیغامبر - قاصد بعد - ابعاد - علمہ کرتا، معرود کرنا جہ وطن کرنا - بعث - مبعثت - ناگہانی غیر متوقع بعی - مستبقی، محفوظ، ریزروڈ بکباشی - رت، لیفٹینینٹ کرنل	فرجی عہدہ دار بکلوریوس - (مع) گریجویٹ تئون - بی - اے بلا تین - پلانٹینم - ایک قسم کی دھات جوسونے سے قیمتی اور بھاری ہوتی بلجیکا - بلجیم بلدیۃ - میونسپلٹی تبلشقی - انتہا پسند اشتراک جہ بلا شقیہ بلشقیۃ - بالشانزم بلط - بلاطہ - ناسی، زوش کا پتھر - دبلاطۃ بلاط الملٹ، دربار شاہی - بلح - بلاغۃ، بالوغۃ، نالی، موری گندہ آبجک - بلخ - بلاغ، خبر - اطلاع، اعلان پیغام - فرمان، نوٹس - بلاغات بلاغ آخیر الہی میٹ مبلح - مقدار - رقم بلکون - بالکنی بلوک امین - کوارٹر ماسٹر - (فرجی عہدہ) بلیون - ایک ارب (۲) دس لاکھ بمباشری - لیفٹینینٹ کرنل بستج - تبدیلیا، سن کرنا بے حس کرنا - تبد قانون کی دفعہ، فقرہ جہ تبد تبد وقیۃ - بدوق - گن - تبد ولہ - اگر کسی کا پند و لم بنزین - پٹرول بنک - بینک - جہ بنوڈ ببق - کافی - قہرہ بنتی اللون - کافی کھرباؤننگ
--	---	---

ت

ثارتی، انتقامی
ثبیت، حجت، دلیل، ثبوت
ثابت، غیر منقول، غیر متحرک، ظاہر
تسلیم شدہ، مستقل مزاج، مستقل،
اثبات و تثبیت، مامنی لازم
کرمستقل کرنا، برقرار رکھنا۔
ثعب - ثعاب و ثعوب - دیاسلائی
ثقف - ثقافت، کلچر، تعلیم، تہذیب
ثقفی، کلچرل، تعلیمی، تہذیبی۔
تثقیف، ذہنی تربیت دینا، مذہب
بنانا - تعلیم یافتہ بنانا۔
مُثَقَّف، تعلیم یافتہ - مذہب
ثقل نوعی، (سائنس میں) کثافت نوعی
ثکنت، فوجی بارک، پولس کا مرکز۔
ج ثکنات
ثلث، ثلاثی، سرکشی، سر نری۔
سراجزائی، سرعنی
ثلج - ثلجی، ہرنانی، ہرن سا۔
ثلاثۃ، آئس کبس، ہرن رکھنے کا صندوق
ج ثلاثیات
مُثَلَّجۃ، ریفریجریٹر، ٹھنڈا کرنے کی مشین
شمر - شمر مالہ تشمیرا، مال میں اضافہ
کرنا - کاروبار میں لگانا۔
شنی، شنائی، ڈبل، دوہرا، دو رکشی،
ٹائکوئی، دوسرے درجہ کا سیکڑی
استثنائی، خصوصی، ہنگامی
ثورة، جوش - بغاوت، انقلاب
ثوری، انقلابی، رشوروش پسند
ثائید، باغی، انقلابی، ج ثوار

ج

جاویش، سارجنٹ - ایک فوجی عہدہ
جبیس، پلاسٹر کا مصالحہ - کھریا۔

تایع، ماتحت، ماتحت، خادم، طفیلی
مُصاحب۔

تبیعة، ذمی داری، نتیجہ، انجام
تبیع، پیچھے کا تھما کر
تبیل... تبیل، مصالحہ ملانا، لگانا
تبال، مصالحہ فروش
تبن، تبتان - نیکر، لنگوٹ، ہانگی
تجدو - تاجد العجلۃ، تھوک فروش
تاجد المفرق والعطامی -
پرچون فروش، خردہ فروش
تحت - مُتحتف، مجاہد خانہ، میوزیم
ج: متاحت

سرام، ٹرام کار۔
ترسانۃ، میگزین، اسلحہ خانہ
ترعة: نہر، ج ترع
ترعة الايراد، آب پاشی کی نہر
ترعة المقرین - پانی نکالنے کی نہر
تشرین الاول، ماہ اکتوبر۔
تشرین الثانی: ماہ نومبر
تعب - اتعاب، محنت، فیس
تکثکثۃ: ٹھیک ٹھیک کرنا، کھٹ کھٹ کرنا
تلفراف، ٹیلی گراف - ٹیلی گرام
تلفغۃ، تار دنیا۔
تلفغۃ، ٹیلی ویژن
تلو - التالی، اگلا - متصل
بالتالی، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ۔
تنکۃ: کنستریٹ - مین

توتیا: جست
توتیا زرقاء: نیلا سھوتا
تولستو: ٹالسٹائی
تیار: کرنٹ، ہوا کا جھونکا، بہاؤ،
دھارا - حالات کا رخ - رو

ج تیاترات

تیفود، ٹائیفیڈ۔

ٲ ٲ ٲ

بنی، مکتبی، عمارت - بلڈنگ
بتام: مہار - تعمیری، عمل بتام

تعمیری اور ترقیاتی کام
بھو، مال - بڑا کمرہ، ج: آبھار
بیو، بیٹہ - ماحول، محل وقوع
ج بیئات
بوب، بوابۃ، پھانک - بڑا دروازہ
بوح، اباحۃ، رخصت - وجہ حرام
اباحیۃ، بالشرع، کبیر نزم کی وہ
قسم جس کے اصول انتہا پسندی پر مبنی ہوں
بورصۃ - (م) تھماتی منڈی

الاوراق البالیۃ، تھامہ زری تجارت
بوص، سک - ریشمی کپڑا۔
بوصۃ، ایچ - ج: بوصات
بوصلۃ، قطب نما۔
بوغار، تنگ نائے، دوسندروں کے
درمیان کی تنگ نائی۔

بوق: بگل - لرن - ج ابواق
بول: مبولۃ: پیشاب دان۔

بولسۃ: رسید - ہنڈی
بویۃ: پالش

بیادۃ: پیدل فوج
بیت تجارتی، کمرشل ہاؤس
تجارتی کھر

بتیق... تبییضاً: قلعی کرنا - چوہ
پھیرنا - کپڑا دھونا۔

مبتیق، قلعی کر - دھوبی
بیکار - پرکار۔

بیکۃ النور، الکھرمائی - بلب بقمہ
بیان: تفصیل - رپورٹ - وضاحت
پر وگرام - لاسٹر عمل۔

بیان رسمی، سرکاری اعلان

ت

تبع، تیراغا، مسلسل، لگاتار

مَجْمَع، کنونشی، اجتماع ملی
مَجْمَعِ عَلَیّی، اکیڈمی، لیٹری ادارہ
مَجْمَع، دائمی جلسہ
جمل - بالجملة، تھوڑا، بول سیل -
خلاصہ یہ کہ
تاجراً الجملة، تھوڑا فروش
جنحہ، جناح، عمارت کا حصہ
جند قجینیڈا، فوج میں بھرتی کرنا
تجنید اجہادی، لازمی بھرتی
جنسۃ تجنیسیۃ، حقوق قومیت عطا کرنا
کسی ملک کی میٹلجی دنیا، ملک بنانا۔
جنسیۃ، قومیت، تیشنس، ملک حقوق
تجانس، ہم قوم ہونا۔
جنن، جنینۃ الحیدان، چڑیا گھر
جنی، جنینہ، اشرافی، گنی، برابر لڑائی
پکس روپے یا اسٹلنگ۔
انگریزی پاؤنڈ، بیس شلنگ۔
جوہرتی، بنیادی، اصلی، ضروری
زیرات نیچے والا۔
مجوہرات، زیرات۔
جہر، مجہر و مبہر، مجہر۔
میکرفون، لاؤڈ سپیکر۔
مجہر، میکرسکوپ، خوردبین
جہز - تجہیز - تیار کرنا۔ سامان یا
زاد راہ سے لیں کرنا۔
جہاز، نظام، سسٹم، نظام ترکیبی
جہز - تجہیز - تیار۔ آراستہ لیں۔
جواب، سیاح
مجبوب، بیچ، سوداگر کرنے کا آلہ
جوت، پٹ سن، سنی جس کی بریاں وغیرہ
بنائی جاتی ہیں۔
جوز - جائز الامتحان - جوڈا۔
امتحان پاس کرنا۔
اجازۃ - سز دینا، رخصت دینا۔

مکنا۔
جلبہ، داش، دو ٹکڑوں کی جوڑ تیرا چھل
جلاب و جالب، ایپورٹر، بیرونی
مالک سے مال مکنا والے۔
جلستہ - نشست - میٹنگ۔
قضائیتہ، سیشن، مدالتی اجلاس
مجلس نشست گاہ - سیٹ۔
ٹریڈر، پکری۔
مجلس الادارۃ، مجلس انتظامیہ
مجلس الاعیان، دارالامراء
مجلس النواب، پارلیمنٹ۔
مجلس المدیریتہ، ڈسٹرکٹ بورڈ
مجلس اقلیتی، صوبائی کونسل
مجلس بلدی، میونسپل کمیٹی
مجلس الشریعہ، مجلس مقتنہ
مجلس منکریتی، فرمی مدالت
مجلس نیابتی، پارلیمنٹ۔
جلل جلالۃ و صاحب جلالۃ،
بادشاہ کا اعزازی لقب ہے مجسٹ
مجلۃ، رسالہ - میگزین - مجلات
جلو - حلاؤ - اٹھار - انکشاف
جالیۃ - پردیسی جماعت جو جلیات
چھڑک - جنگی خانہ جو چھاروں کمر ہاؤس
جمعۃ الحروف، کپڑا کرنا۔
جمعیتہ، سوسائٹی، انجمن، ایسی ایش
جمعیتہ خیریتہ، فلاحی انجمن وغیرہ
سوسائٹی۔
جمعیتہ عمومیۃ، جنرل اسمبلی
جماعتی، اجتماعی، جماعتی، مشترکہ
جماعۃ الکھرباء، خزانہ بجلی
جامع الحروف، کپڑا کرنا
جامعۃ، یونیورسٹی، لیگ
اجتماعی، معاشرتی، سوشل امراتی
مجمعہ، سوسائٹی، معاشرہ،
سماج جو مجتمعات۔

جیس العنوا، حقہ جسم پر پائے ہوئے
حبۃ - محاذ جنگ وغیرہ جو جہات
حبی، حبی الاموال والذوائب -
جباہ، وصول کرنا (ٹیکس وغیرہ)
جاب جو جباۃ، محفل - وصول کنندہ
جدول، چھوٹی نر گول، فرسٹ،
ہارٹ، نقشہ، کالم جو جدول
جدول الاعمال، ایجنڈا۔
جدول القرب، پہاڑا۔
جہد عتی، پیادہ
جہاد، گرام - مع
جہاد، راکٹ۔
جہاد، سرجن، سرجری کا طبیب
جہاد، سرجری۔
جہاد، اخبار نیند پیر جو جہاد
تجدید، فوجی دستہ، فوجی مدد
مجدد الانسان، دانوں کا برش
جہد، جہاد، آزادی، نقل جو جہاد
جہد، اجراء قانونی، مضابطہ کی کارروائی
اجراء قضائی، مدالتی کارروائی
اجراءات، کارروائی
مجدی، دودھ، رفتار، مدار،
گزرگاہ، رخ
جہز - پرزہ جو اجزاء
اجزائی، کیسٹ، دوا فروش
اجزائیتہ، فارسی، دوا خانہ
جہز، پیپہ کا کینٹر۔
جہز، بوٹ - جہاز (دوا)
جہز ماتی - جہز بنانے یا مرمت کرنا
جہز نقدی، جرمانہ
جہز، تعزیری - قابل سزا
جہل، مزدوری، حق منت، کمیشن۔
جہز - غفیر دم الخط
جلب و استجلاب - باہر سے مال

اجازۃ سند، رخصت
مجازۃ سند یافتہ۔ فاضل
جواز و اجازۃ۔ پریٹ، لائسنس
جواز السفر، پاسپورٹ۔ پروانہ
راہ داری، جوازات
جواز، دفعہ گیس، جوازات
جوازۃ، انعام، جواز
جول۔ جوال، سیاح، گشت کنڈہ
پھیری لگانے والا۔
جولۃ، گشت، پھیری، دورہ۔
جوالۃ، موٹر سائیکل
مجال۔ میدان کار، گنہائش، مرقع
جہ مجالاث۔
جوت۔ نفا، ماحول، آب و ہوا
جوتی، فضائی، ہوائی، غلاتی
اجوائی، ماہر موسم بات
جیولوجیا، علم طبقات الارض

ح

حبس احتیاطی، حوالات
مینیس، ٹوٹی، جہ محابیس
حکۃ الروایۃ۔ ناول کا پلاٹ خاکہ
حجب۔ حجاب، پردہ، پارٹیشن
حجز۔ حَجَزاً، ریز روکنا، محفوظ کرنا
حاجز۔ رکاوٹ، پارٹیشن، دیوار
جہ حواجز
حکات، واقعہ، بدعت، توہم
حدیف، بات، کلام، گفتگو، کہانی
روایت، حکایت، خبر، مضمون
حدّ۔۔۔۔۔ تحدیداً۔ حد بندی کرنا
کنٹرول کرنا۔ محدود کرنا۔
تحدید النسل، ضبط ولادت
حدق، حدیقۃ عمومیۃ، باغ عام
پبلک گارڈن
حدل۔ حد لا، مہوار کرنا، رول پھیرنا

محدّلتہ، درودہ گریڈ پتھر جس کے ذریعہ
زمین مہوار کی جائے
محدّلتہ بخاریۃ، اسٹیم رولر
سڑک کوڑنے کا ایجن۔
محدور، عمتا، چرکتا
محدور۔ قابل احتیاط
محدویتہ، ممکنہ جنگ۔
محدّاب، سنگین برادر، نیزہ بردار
محدّاب، جنگجو۔ ردا کا، سپاہی
محدّ۔ مہرات بخاری۔ ٹریکٹر
محداج، نیلام
محدّہ تحریر، آزاد کرنا۔ ایڈٹ کرنا
محدیدی، آزادی سے متعلق، ادارت
سے متعلق۔ تعینات سے متعلق
محدّس، آڈیٹر، مصنف، رائٹر
محدّس، گارڈ، حفاظتی دستہ
محدّس شخصیت، ماڈی گارڈ۔
محدّسۃ، پردہ، مدالتی پردہ، ضلعی
محدّس تحریر، فساد انگیزی کرنا
محدّس، تدریسی، اشتعال انگیز
محدّس مطبعی، اودھ بندی، ماب
محدّس، حرف ہرمت۔
محدّس۔ حریق، آتش زدگی، جہ حوائج
محدّس۔ تفریک، جہ حرکات
محدّس المردوس۔ ٹریک۔ آمودت
محدّس، موٹر یا مشین جس کے ذریعہ
آلات حرکت کرتے ہیں۔
محدّس، تعذیب، عدم جواز، عورت
محدّس الرجل، بیوی۔
محدّس، پارٹی، گروہ۔ جہ احزاب
محدّس شیوعی، کمیونسٹ پارٹی
محدّس اشتراکی، سوشلسٹ پارٹی
محدّس معارض، حزب مخالف
محدّس، پارٹی بندی، گروہ بندی
محدّس، گروہ بند۔ پارٹی باز

محدّس، ماہ جون۔
محدّس۔ حدقا، ڈباؤ ڈانا
محدّس۔۔۔۔۔ حدقا، ہاندھنا، ہڈل
محدّس۔ پیک کرنا۔ احتیاط برتنا
محدّس، عمتا، وود اندیش
محدّس، ناجی، سڑکی۔
محدّس، محاسب، محاسب
محدّس، آڈیٹر، حسابات کے جانچ
کرلے والا۔
محدّس، اکاؤنٹنگ، حساب کارام
محدّس، جاری، کرنٹ اکاؤنٹ
محدّس۔ حسنا، کاٹا، چکانا، امگ
کرنا۔ ختم کرنا۔
محدّس، قلعی، فیصل کن، نازک
محدّس، تحسینات، اصلاحات
محدّس، حساب، سوپ، شربا۔
محدّس، حسنا، فوج جمع کرنا
محدّس، کھیتی، گدا، جہ خشایا
محدّس، مہرتا، ہتھیار میں بارود
دفعہ مہرتا
محدّس۔ محصدة، کھیتی کاٹنے کی مٹین
محدّس، کلمۃ والعبادۃ، حصّہ۔
محدّس، امابت، رائے
محدّس۔ حصّہ، روپہ جمع کرلے کا کبھی
سیرنگ کبھی۔
محدّس۔ پیداوار، نتیجہ، حاصل، مجموعہ
آمدنی، جہ، حصائل۔
محدّس، پیداوار۔ جہ محاصیل
محدّس، حصّہ، قلم بند ہونا
محدّس، قلم بند، مضبوط، محفوظ۔
محدّس۔ حصّہ، بولیۃ، پتھری، مہرتا
کی راہ سے نکلتی ہے
محدّس، اللئوس، مردم شماری
محدّس، اعداد و شمار۔

<p>بال کاٹنے کی مشین۔ حل و پارٹی ٹیم کرنا، وزارت توڑنا۔ احتلال: قبضہ کرنا، قابض ہونا۔ دارن: محتلتہ: مقبوضہ علاقہ۔ حدتہ: ڈھکن دار دیگی۔ انحلال: ڈسپلین، سستی، کمزوری خلویات: محالیاں۔ حُمرّۃ: سُرخی، ہونٹوں کو لگانے کی سُرخی حَمَز: چہرہ پر۔ حَمْسہ: جوش دلاتا، مشتعل کرنا۔ حماسی: پرجوش، مشتعل مزاج حَمَص.... تَمِیْصًا: سیکنا، بھونٹنا ٹوٹے یا روٹی وغیرہ سیکنا۔ حمل: حاملہ و کمالہ: پل کے ستن محمل: ڈولی، معاملہ محمول: گاڑی کا لوڈ۔ وزن حامل: اسٹینڈ۔ جو حامل حمی: مُحَامِی: وکیل، بیرسٹر۔ حَامَا، مُحَامَاةً: وکالت کرنا۔ مدافعت کرنا محجیات: محروسہ علاقے۔ حمایہ: حفاظت۔ راسرٹ نگرانی حَمَایَۃ دَوْلَیَۃ: بین الاقوامی نگرانی حَامِیَۃ: حفاظتی دستہ جو حوامی حَقِیقَۃً: ٹینڈ۔ حَنْک: مَحَنَک، تھریب کار، ہرشیار حَوْج: حاجیات، ضروریات، لوازم حُورِیَۃ: پردی، ج، حُورِیَۃ محوور، بیلن، لوبہ کی لٹ جس پر دول پیسے گھرہتے ہیں۔ حَیْزُ الْأَمْکَان: دائرہ امکان انْخَارَ الْیَدِ: کسی کی طرف جھکنا۔ طرہ دار ہونا۔ حِیَازَۃ: قبضہ ملکیت تحیز: طرف داری، جانب داری</p>	<p>حقق: تحقیق، ثابت کرنا، برلانا۔ جاپچ پڑتال کرنا، چھان بین کرنا۔ استحقاق، صلاحیت، اہلیت مُحَقِّق: پیکاری، انجکشن۔ مَحَقَنَۃ: سرخ، پیکاری حَمَلْک: کھربا، چاک۔ حَمَلْکُ الْأَحْجَرِ الْکَرِیْمَۃ: نیکین ساز، جہیزات کو ترا سٹخے والا۔ مَحَلْک: کسٹی، جو مَحَلْکات حُکْم، حُکْمَت، فرائز دانی، اقتدار مدالتی لیسلہ، لیسلہ۔ حُکْم عِدَّتِی، مارشل لا۔ حکم الارهاب، دہشت پرستانہ حُکْمَت۔ حکمدار: حاکم شہر، کونال۔ حکمداریتہ: کونال۔ مَحَلْمَۃ: مدالت، کپری۔ مَحَلْمَۃ جَزِئِیَۃ: مدالت خفیہ مَحَلْمَۃ الْجَزَاء: مدالت دیوانی مَحَلْمَۃ الْجِنَايَات: مدالت فوجداری مَحَلْمَۃ مَدَنِیَۃ: سول کورٹ مَحَلْمَۃ عَسْکَرِیَۃ: فوجداری مدالت مَحَلْمَۃ الْاِسْتِیْنَان: ہائی کورٹ مَحَلْمَۃ: مقدمہ، سماعت مقدمہ حکم: حاکم، گرامفون، فوڈ گران حَلَب: حَلَابَۃ، مَحَلَب۔ دودھ کا کارخانہ، ملک ڈیری حَلِیْب اللوز: شیر، بادام حَلِج: محلجہ: پٹائی کا کارخانہ حَلْدُوفَۃ: پوچھ دار کیل۔ حَلْدُوفِی: پوچھ دار حَلَف: پیکٹ، معاہدہ، کنفیڈریشن۔ حَلَف عَسْکَرِی: فوجی معاہدہ، گٹھ جوڑ ج احلاف۔ حَلَق: مَحَلَقَۃ: سیفی ریزرو۔</p>	<p>حضر: حضور، حامی، شرکت، موجودگی پیش۔ حَضَارَۃ: تہذیب، تمدن، شہرت حَضَرِی، شہری، تمدنی کافِزَۃ: پایہ تحت، جو خواہر۔ مَحَضَر: روداد، کارروائی، جہ مَحَاضِر۔ اِحْضَار: پیش کرنا۔ مدالت کی پیش اِحْضَارِیَۃ: سمن مدالت اِسْتِیْعْضَار: طلب کرنا مَسْتَحْضَرَات: تیار کردہ سامان تَحْضَر: تمدن، تیاری تَحْضِیْر: شہری بنانا، تیار کرنا حَاضِرَۃ: کچھ دینا۔ مُحَاضِرَۃ: کچھ، علمی تقریر، جہ محاضرات۔ مُحَاضِر: کچھ۔ حَضَن: حِضَانَۃ، پرورش، نرسنگ دایہ گری۔ حَاضِنَۃ: دایہ، نرس، جہ حواضن حَط: مَحَطَۃ: اسٹیشن، جہ محطات خطر، ممانعت۔ رکاوٹ۔ حَطَر التَّجَوُّل: کریڈ۔ حَفْز: حَافِز جہ حوافز، محرک، امٹ حَفْظ: مُحَافِظ، کلکٹر، نگران مُحَافِظَۃ الْقَطَار: گاڑی ریلوے مَحْفَظَۃ: انیس۔ فلاں، بستہ۔ مَحْفُوظَات: رکاوٹ، پرانی کاغذات حَفَۃ: مَحْفَظَۃ، اسٹریجر، پاکٹی۔ حَقْل: بزم، مجمع، جلسہ، تقریب حَفْلَۃ: جلسہ، پارٹی، جہ حفلات حَفْلَۃ الشَّامِ: بی پاسٹی حَفْز: حَفَاوۃ، غیر مقدم، اعزاز و کرام حَقَب: حَقِیْبَۃ، بیگ، سوت کیس جہ حَقَاقِب۔</p>
---	--	---

مختص: طرف دار۔ جانب دار۔
حَوْصُ الارْتَقِ: کیا ریاں بنانا۔
حَوْصُ السُّنَنِ: گردی جس میں جہاز کھڑے
ہوتے ہیں۔

حوط: احتیاطی، ریزرو، محفوظ
مُحِيط: دائرہ، سمندر، ماحول۔
ج مَحِيطَات:۔

مَحْطُوط: مصلحت اندیش، محتاط
حَوَّلَ تَحْوِيلًا: حالت بدلتا، منتقل کرنا
ریل گاڑی کی لائن بدلتا۔

أَحَالَ...: الی، برسل کرنا، مَحْمُول کرنا
أَحَالَ عَلَى الْمَعَاشِ: پنشن دینا۔
حَالًا: ابن الوقت

حوالۃ تَحْوِيل: آرڈر، حکم
مالیہ:۔ چیک، ڈرافٹ، منی آرڈر
حَوَائِل: تقریباً، برابر
تَحْوِيل السُّوَد: تبادلہ سکہ۔
تَحْوِيلِيَّة: ریورس کاشا۔

مَحَالَّة: بردا بیلن
مُحَوَّل: منی آرڈر بھیجنے والا
ڈرافٹ یا چیک کے ذریعہ رقم بھیجنے والا
مُحَوَّلَتَا: ریورس ٹینیجی جس کے ذریعہ
ریل گاڑی ایک پٹری سے دوسری پٹری
پر جاتی ہے۔

مُحَوَّلِي جُوع: مَحْوَل: سرچے میں
ریل کی قینچی بدلنے والا۔

مُحَوَّلَتَا عَلَيْنَا: رقم پانے والا جس
کے پاس منی آرڈر بھیجا جائے۔
مُحَوَّل لَه: جس کے نام چیک یا
ڈرافٹ کیا گیا ہو۔

حوی: حاوی، ماری، سپر، شہیدہ باز
ج حَوَاة:۔

محتویات، مندرجات
حید: حیا، محابہ، غیر جانبداری
مُحَابِد: غیر جانب دار، کنارہ کش۔

حَيَوِي: جاتی، زندگی کا، زندگی کے لئے
ناگزیر۔
حَيَوِيَّة: قوت حیات۔

خ

خبا: مَخْبَأ: پناہ گاہ۔
خبیر: مخابرہ، خبر رسانی
اختیار، امتحان، اسٹ، تجربہ
استخبار، تحقیق کرنا۔

خَبِيرَة: تجربہ کار، واقفیت، مہارت
خبیر: صاحب بصیرت، تجربہ کار
ماہرین ج خُبَرَاء:۔

مُخْبِر: تجربہ گاہ، لیبارٹری
ج مَخْبِرَات
خبیر: مَخْبَر: روٹی کی دوکان، بیکری
لیکٹوں کا تودہ۔

ختم: مہر، مہر کا نشان، مہر کا آلہ
خَتْمَة: اسٹامپ پیڈ، مہر کی سیاہی
کی ڈبیر۔

خَدَّ: مَخْدَة: تکیہ، گدھا۔
خَدَّارَة: خد پیرا، سن کرنا، بیوش کرنا
خَدَّار: خَدَّارَة: بے بسی، بے ہوشی
مُخَدَّر: بے ہوش یا سن کرنے والا
خدا مہر: استخد امر: خدمت لینا۔

لازم رکھنا، کام لینا، استعمال کرنا
مُسْتَخْدَم: ملازم، نوکر، کارکن
خاد مہیة: ملازمت، نوکری۔

خدیو: خدیوی (ترکی) وائسرائے
مصر کے سابقہ فرمانرواؤں کا لقب۔
جو سلطان ترکی کے تابع ہوتے تھے۔

خرج: خرچہ و متخرج: کسی
تعلیمی ادارہ کا فارغ التحصیل، گریجویٹ
تخرج: سند فارغ حاصل کرنا
خارجی: بیرونی، غیر ملکی
مخرج: قلم وغیرہ تیار کرنے والا

خَرَز: مَخْرَز: ستاری۔
خَرَط و خِرَاطَة: خراہ کا کام کرنے والا
خَرَطُ المَخْتَب: خراہ کا کام کرنے والا
مَخْرَطَة: خراہ کی مشین۔
خَرَّ بَطَّة: حیرانی، نقشہ، نقشہ
ج خَرَّ اَنْط:۔

خرم: مخترع، ایجاد، مخترعات
خرم: حرامة، سوراخ کرنے کا افسار
تَخْرِيسَة: منقرع راستہ

خَزَكَ الْكَلَامَ: خزلانا، اختزانی
منقرع کرنا۔ اشاروں میں کلام کرنا
اختزال و شارٹ لیس، اسٹینڈرٹ
خزلت: خِزَانَة: ماری، تجربہ۔

خزینة و خزان: بیت المال
خَزَان: تالاب، ڈیم، حوض، بئگی
ج خَزَائِن:۔

خازن، خزانچی، منتظم، گروام
مَخْزَن: دوکان، اسٹور، گروام
ج مَخَاِزِن:۔

خشب: خَشَب: بغیر پائش کیا ہوا
خَشَن: اکھر، سادہ، بد اطلاق۔
خَصَص: خصوص: تعلق نسبت

تخصص: منفرد ہونا، امتیاز و
مہارت حاصل کرنا، کسی علمی شعبہ کا ماہر ہونا
مُخَصَّص: فاضل، ماہر
اِخْتِصَاص: دائرہ اختیار، ج
اِخْتِصَاصَات:۔

اِخْتِصَاصِي: اسپیشلسٹ، ماہر
مَخْصُوص: اسپیشل، پرائیویٹ
مَخْصُوصَة: خصوصاً، کسی کے مقابلہ پر قیمت
میں کمی کر دینا۔

خَضَعَ لَهَا: ماتمت دوست نگر ہونا
خاضع، ماتمت، تابع، دست نگر۔
خطر: خاطر... مخاطرات، بازی لگانا
خطرہ مول لینا۔

تخاطر: شرط برصنا، بازی لگانا۔
 اخطار: تنبیہ، لرز۔
 خَطَّطَ الْأَرْضَ: حد بندی کرنا۔ چک بندی کرنا۔ کھیت میں کیاریاں بنانا۔
 خَطَّ: واختر: منصوبہ و اسکیم بنانا۔
 خط: لائن، سطر، کھائی، رسم خط۔
 خَطَّ جَوَّی: ایر لائن، فضائی راستہ۔
 خَطَّ سَكَّةَ الْحَدِيدِ: ریلوے لائن۔
 خَطَّة: لاکھ میل، اسکیم، منصوبہ، ج: دُخَطَطَ۔
 تخطیط: پیمائش، زمین، سروے۔
 چک بندی، حد بندی۔
 خضر: خَفِیض، چمکیدار، ج: خَضْرَاءُ۔
 مَحْضَر: چرکی، پولیس چرکی۔
 حَقَصَ: کم کرنا۔
 تخفیف: رعایت، کمیشن۔
 خَفَّتْ: بات برٹ، اسپیچ آفٹ۔
 خَفَّةُ الْمَيْدِ: ہانڈ کی صفائی، شہیدہ۔
 خَفَّتِ الْبَيْعَ: خَفَقَ: اندھا پننا۔
 مخففة البیعت: اندھا پننے کا آلہ۔
 خلص: خالص، اجرة البرید، محصول، ڈاک، پرسٹیج۔
 استخلاص: مال چھڑانا۔
 خلج: خلاصہ، آوارگی۔
 خلجیم: آوارہ، بدعاش۔
 خلعت: مختلفات، متروکہ سامان۔
 خَلْفِيَّةُ الصُّورَةِ: بگ گرائون پس منظر۔
 خَلْفَتَا: کپڑے کا ٹکڑا۔
 خلق: خُلُقَافِي: پرلے کپڑے بیچنے والا۔
 اختلاق: اختراع کرنا، گھڑنا۔
 مُحْتَلَقٌ: من گھڑت، ساختہ، جعلی بنا دلی۔ بے حقیقت۔
 خَلَوِي: دیہاتی۔
 اخلاص: اخراج، جلا وطنی۔

خماسی: منجھس، پانچ گنی، پانچ اجڑائی۔
 خمول: سستی، گمنامی۔
 خَوَّلَ: نحو بیلا، حق سپرد کرنا، سپرد کرنا۔
 خان: سرائے، ہڈل، ج: خانات۔
 خَيْطُ الْقَتَبِ: سستی۔
 خَشِيش: کینڈیس، ایک دبیز کپڑا۔
 خَيْلُ الْبَيْتِ: کنا، اسے ایسا خیال ہوا اس نے ایسا سمجھا۔
 مَحْفِيلٌ: حیران کن، توہم خیز۔
 مخفلة: قوت تعمیلیہ، داغ۔
 خیلج: مَحْتَمٌ: ج: مخفیات۔
 طیر گاہ، کیپ، پناہ گزی، کیپ۔
 خام: خام، باپختہ، سادہ۔
 خامات: ابتدائی میٹریل، خام اشیاء۔

د

یا سگریٹ پینا۔
 داحنة مدخننة: دسوان نکلتے کی مہنی۔
 دَرَبُهُ عَلٰی...: قد رُئِیَا، مشن کرنا۔
 ٹریننگ دینا، تربیت دینا۔
 تدرب علی...: مشن کرنا، تربیت کرنا۔
 دُرْبَةُ: تجربہ، مشق، عادت۔
 دَرَجَ مَدَارِجُ: ہوائی اڈے کی سڑک۔
 رن وے۔
 دُرُج: میرزک راتہ ج: اَدْرَاج۔
 درجہ: گریڈ۔
 درس: دراستہ، تعلیم، مطالعہ۔
 ضرر و غرض، ممانیت۔
 مدرسة فکرو: مکتب فکر۔
 مدرستی: درسی، اسکول کا۔
 درع: مدّرع، زره پوش۔
 مدرعات: کمز تباگ ڈیاں۔
 دعوی: دعیایہ، پروپیگنڈا۔
 دَعْوَةُ: دَعْوَى، مقدمہ کیس۔
 دَعَا: دَعَايَةً، مددنا، اسٹو۔
 انگلیسی۔
 دفتر: کاپی، نوٹ بک، ج: دفاتر۔
 دفتر: قد، محافظانہ۔
 دقة: ادائیگی۔
 دَقَّةُ مَالِيَّةٍ: قسط۔
 دافع: مرکب، سبب، دوافع۔
 مدافع: توپ، ج: مدافع۔
 مدفع: ایس، رسول کنندہ۔
 مدفعیہ: توپ خانہ۔
 دقة: باریکی، صحت، نزاکت، پختگی، ہوشیاری۔
 دکتاتور: ڈکٹیٹر۔
 دکتور: ڈاکٹر، اعلیٰ علمی ڈگری والا۔
 دکتوری الحقوق: ڈاکٹر آف لا۔
 دُولَاب: مٹین، آلہ پیتہ۔
 دل: دلیل، راہ، تامل، گھڑ۔

دایل: گھڑی کا ڈائل۔
 دَبَابَةُ: ڈینک، دَبَابَت۔
 دَبَح: دَبَابَجَة: سرنامہ، القاب۔
 خط کا کتاب کا متبندی معنوں۔
 دَبَرُ خَطَّة: اسکیم بنانا۔
 دَبَوْتَمَة: اسٹار، فریون کی دنگ۔
 کاستارہ، پتھر توڑنے کا آلہ۔
 دبیس: دبوس، پن، سیفی پن، باروں۔
 کاکلپ: ج: دبا دبیس۔
 دبغ: مدبغہ، چرواہا صاف کر لیا کاٹا۔
 دخل: آمدنی۔
 دخیل: دبسی، غیر ملکی، ج: دخلاء۔
 دخلیہ: اندرونی معاملات کا حکم۔
 مدخلول: آمدنی، پیداوار۔
 دخن: تباہی، بھاپ، دسوان۔
 دخا خنی: تباہی و لوازم فروخت کرنے والا۔
 دَخَنٌ تَدَخَّنَا: تباہی بنیاد۔

[illegible]

زبدیہ - پیالہ - چربادی
 زبل - ذبالتہ - کڑوا
 صندوق الذمالة کڑے کا گڑھ
 مذبلہ - کڑواخانہ
 زحف الجیش - پیش قدمی کرنا
 زحافۃ - زمین ہموار کرنے کا آلہ
 زحلوقة - پھسلوان زمین - پھسلوان تختہ
 زعم - زعامتہ - لیڈری - لیڈرشپ
 زعیم - قوم کا لیڈر - سربراہ - چ
 زعمار
 زعیم عصابۃ کسی پارٹی کا سرغنہ
 زنت - تار کرل
 زفته تزفیتا - تار کرل لانا ڈانا
 زکب - زکیبۃ - بری - بڑا اچھلا
 زلج - مزلاج - پھسلوان کھڑاؤں
 زلط الارض تزلیطاً - زمین پر کھڑک
 ڈانا
 زمیل - زمیل - شریک کاروبار ہم پیشہ
 زنبوک - اسپرنگ
 زنتک - توتیا جبت
 زھریۃ - بگل دان - پھول رکھنے کا برتن
 چ زھریات
 مزھریۃ - گل دان
 زرج - کسی شے کا جوڑا - دو -
 مزدوج - ڈبل - ڈبیرا -
 خط مزدوج - ڈبل لائن
 زودہ ب... تزویداً - ہم پہنچانا -
 سچائی کرنا - دینا -
 زوساۃ - ایک ملاقات
 زیارۃ - ملاقات کسی ملک کا دیدہ
 زائر - ملاقاتی - چ زوار
 مزار - قابل زیارت مقام
 زول زاول العمل - مزدالتہ -
 مسلسل کرنا بغیر پیشہ کرنا -
 مزدول - ٹیلیفون کا ڈائل -

زفا - مرقۃ - پورٹ بندرگاہ چ مرقاتی
 رفق - مرفق - مرقاق - ضروریات
 ولوازم شے - ناگزیر لوازم -
 آرقتی -... یکدہا - منسلک کرنا
 نعتی کرنا
 مرفق - ہم رشتہ - منسلک -
 مرفقۃ - بلائنگ پیڈ -
 رقب -... رقابۃ - نگرانی کرنا
 رقابۃ - نگرانی - کنٹرول - سنر
 چھان بین
 مراقب - نگران - سپروائزر
 مرقب - رصد گاہ -
 مرقب فیکٹی - میلسکوپ -
 رقص - رقاصۃ الساعۃ - ہندولم
 مرقص - ناچ گھر - ڈاسنگ ہال
 رقع - رقعۃ العنوان - بیل چٹ
 مرقعۃ - اسٹینسل -
 رقم - نمبر چ ارقام -
 مرقیم - نمبر ڈانا
 رکب - مرکب - سواری بھان
 رکاب - سواریاں - مسافر
 رکز - مرکز - مرتبہ - پوزیشن - عمدہ
 اسامی پرست - صدر مقام
 رت - رتان - گوبندار -
 رهن - راہن - حامد موجود
 حالت راہنتہ - موجودہ حالت
 رود - راشد - راہنما -
 راشد الغضا - ہا باز خلائی سفر
 خلائی کھجنگانے والا - اسکاڈٹ
 روی - روایۃ - ناول - قصہ -
 رودائی - ناول نویس -
 روی - آب پاشی -
 ریت - دیہات - زراعتی زمین چ اریان

ز

مراہیل - نامہ نگار -
 مداہلۃ - نامہ نگاری
 رسم - دستا - تصویر بنانا - نقشہ بنانا
 ڈیزائن بنانا -
 رسم - نقشہ - نقاشی - تصویر ڈیزائن
 چ رسوم -
 رسوم - فیس - محصول - ٹیکس
 رسمیت - سرکاری - قانونی - روایتی
 شبہ رسمیت - نیم سرکاری -
 رسمیتا - سرکاری طور پر قانوناً
 رسمارہ - نقشہ ساز - ڈیزائنر - فلاگر
 رسم - اسٹڈیو - ڈوٹریٹنگ کی
 جگہ - ڈیزائن دم -
 موسوم - فرمان - سرکرہ حکم مقررہ
 اصول چ - مراسیم
 رسو - مرساۃ - جہاز کا نگر چ مراس
 رشعہ لمتصیب ترشیحاً - کسی
 منصب کے لئے امیدوار نامہ کرنا -
 مرشح - کنڈیڈیٹ - امیدوار
 مرشح الماء وارا شیح - فلر
 پانی صاف کرنے کا آلہ -
 رش - رشاشۃ - آب پاش
 رشاشۃ المصاص - مشین گن
 رصد - رصد - محفوظ سرمایہ - بینک
 بیلنس چ آرصدۃ
 رص - رصاص - سیہ
 قلم المصاص - پنسل
 رصاصۃ - گولی - رینڈون کی
 رصت - رصفا - راستہ کو بچتہ کرنا -
 مرصوف بچتہ - بینکڈ -
 رصیف - پلیٹ فارم - فٹ پاتھ
 چ ارسفۃ
 رصع - رضاۃ - دودھ پالنے کی شی
 رطب - مرطبات - زیت بخش مشروبات
 رعویۃ - مکی حقوق - ٹیکسٹ -

مزدوळे - دھوپ گھڑی
ذہیت الالکة - مشین کوتیل گانا -
ذیت الغاز - می کاتیل -
ذید - ریادہ - امانہ - الاؤنس
زاسدہ دودقیہ اپڈی سائیس
مزداد - نیلام
مزاکیڈہ - مزدگشتی بدریہ نیلام
زی - طرز - فیش - جیس - روپ ج اڈیاء

س

سأل - مسئلہ - ذمہ دار
مسئولیتہ - ذمہ داری
سبج - کھاد (دارج)
سید - ستورہ - تختہ سیاہ - بلیک بورڈ
سینڈ وینسبار - کسوٹی
سیرتو - اسپرٹ
سبق - سوابق - گزشتہ جہان
سبک - ڈھلائی - دھاتوں کی گلائی
مسبک - ڈھلائی کا کارخانہ
مسبک حروف الطباعة -
ٹائپ فونڈری -
سبیکٹ - سونے چاندی یا دیگر دھاتوں
کا چھلا ہوا ڈالا - جہ سیامٹک -
ست - خاتون (دوا)
ستوتی - ساتھ ساتھ
سیتار - آؤ - دکاؤٹ
سٹورج - کوٹ - آستین وارہدری
سٹجادیہ - جانا - قالین جہ - سجاوید
سٹجیل تسجیل درج کرنا -
رجسٹر میں لکنا ، بیان وغیرہ قلمبند کرنا -
ریکارڈ کرنا - رجسٹر کرنا -
مُسجَل - رجسٹر
مُسجَل - رجسٹرڈ - مندرج
مُسجَلہ - ٹیپ ریکارڈ - آواز
محفوظ کرنے کا آلہ -

سجیل : رجسٹر - ریکارڈ ، قدیم کاغذات و
دستاویزات جہ - مجلات
سججان - جیل ، جیل کا داروغہ
سجیب - لاٹری ٹکٹ ، کسی علاقے
فوج بٹاتا ، لائسنس وغیرہ ضبط کرنا
سحق - مسحوق - پاؤڈر - مینج -
مساحیق -
سخن - سخاں - پانی گرم کرنے کا مواد
بیڑ - بجلی کا چولہا
سدس - مسدوس : ریرالدر -
جہ مسدوسات
سیرب طائرات - ہوائی جہازوں کی
کھپ -
سٹرح الجین - فوج توڑنا -
سٹراح - رہائی -
اطلاق السٹراح - رہا کرنا -
مُسٹرح - تماشا گاہ
مُسٹرحیہ - ڈراما جہ مسرحتیات
سرد - سردقہ - شامیانہ گانا -
سُرادیق - شامیانہ - پنڈال
سُرعة - تیزی - رفتار - اسپید -
سُریح : اکپریس
سُطر - مسطرتہ : اسکیل ، پیمانہ
جدول کش
سعادیہ - خوش حال - تعلیمی لقب -
صاحب السعادیہ یا سعادیہ فلان
عزت مآب -
مساعدا : مددگار - اسسٹنٹ -
سُغر : نرغ - مجاؤ جہ اسٹعار
سُغر السُعدیہ : سامان کی قیمت مقرر کرنا
ساعرک : مجاؤ کرنا - سودا کرنا
سعر البتادل : شرح تبادلہ
سعت : اسعاف - ریلیف - امداد -
طبی امداد -
سعی - سعی البریں - پرسٹین -

سُفْتَجَة - ہنڈی -
سُفیر - سفیر - ایک ملک کا دوسرے ملک
میں مستقل نمائندہ - جہ سفراء -
سفارۃ : عہدہ سفارت ، سفارتخانہ
سُغوس بے جالی بے پردگی -
سُغن - سفینہ - جہاز جہ سفن
سُغانہ - کشتی - رانی - جہاز رانی
سُغلی : پرانے سپردوں کا تابہر -
سُغت - سقیفہ - سائبان جہ
سُغاف -
سُکر - شکر - کھانڈ -
سُکرخام : گڑ یا شکر -
سُکریہ - شکرانہ
سُکُرجَة - طشتری - پلیٹ -
سُکرتیر - سکرٹی
سُکرتاریہ - سکرٹریٹ - سکرٹی آفس
سُکتہ الحدید - ریلوے
سُدج تسلیحہ - مسلح کرنا
سُلاح الطیران - فضائی طاقت ، ہوائی
فوج -
تُسَلح : ہتھیار بندی
سُلطۃ : اختیار ، منصب ، حاکم -
سُلطۃ مطلقۃ - اختیار کامل -
سُلطات : حکام - اتھارٹیز -
سُلطۃ : چیئمن
سُلطانیۃ : بڑا اپنا لہ - ڈونگا -
سُلُفۃ - قرض مع سود
سُلُفۃ - پیشگی - پیسہ
سُلُک - تار - لائن جہ اسلاک -
سُلُک سیاسی : سیاسی لائن -
سُلُک و طرز عمل ، چال چلن - برتاؤ
سُلُکی - چال چلن سے متعلق -
سُلُکی - دائرہ لیس -
سُل - سلاکتہ ملکیتہ - شاہی خانہ
سُلُکی - پرامن - امن سے متعلق -

<p>شَرَبَ - ... تَشْرِبُ بِهَا - پرست کرنا، ماغ میں بھانا - تَلْقِن کرنا۔ شَرِبَ - یعنی، سوپ۔ شَرَابٌ، شَرِبْتُ - مشروب شَرِبَ - فَنَزَ - دُود۔ مَشْرَحٌ - شَرَحَ - سلاٹس کاٹنا۔ پرسٹ اٹم کرنا۔ شَرَحَ - سَلَّاسٌ - بلا ٹکڑا، قاش مَشْرَحَۃ، چیر چاڑا پرسٹ مارٹم کا کمرہ۔</p>	<p>سوق سوداء - بیک مارکیٹ۔ تسوق - خرید و فروخت کرنا۔ سوق - ڈرائیڈی گاڑی چلاتا سواق - سائق، ڈرائیور۔ سوقی تسویتی - بہا کرنا، چھگڑا چکانا - حساب بے ہاک کرنا۔ مشیج سیاج - ہاتھ چھار دیواری سیجارج - سگریٹ جہ سجاش۔ سیر - رنار چال، ترقی سیکارۃ - مولر، جہ سیارات سائر - ترقی یافتہ، محرک، جاری</p>	<p>تسلّم، وصول کرنا۔ سالمہ مسالمتاً، صلح کرنا۔ مسایم - صلح پسند صلح جو۔ مستگیر - وصول کنندہ سمح - سماحتہ - مالی ترقی، فراخ دل رداداری (اعزازی خطاب) سماحتہ قلائد و صاحب السمت مسامحتہ - تعظیم، چھٹی، معافی سمت الارض تسمیہ - کھاد وانا سماد - کھاد جہ اسمیت سمج - میسماع - اسٹیک سکرپ - طبی آدرجس کے ذریعہ سینے کی آواز سنی جاتی ہے</p>
<p>درمیان ہوتا ہے۔ شَرَطِیۃ - معاہدہ - ہمیں ہوئی شرط شریط - فیتہ - قسم - ٹیپ پٹی جہ اشراطیۃ - مشرط - آلہ رجراجی جس سے جلد کو کاٹا جائے۔ شرع - شرع - قانون بنانا۔ شرعی، قانونی - جائز شرع قانون ساز - لائحہ عمل اور مضمر تیار کرنے والا تشریع - قانون سازی۔ مشرع - اسکیم مضمر، مسودہ قانون جائز مشرع - قانون دان، پریسٹر۔ شرف - عزت - اعزاز، فخر شرعی، اعزازی اشرف علی - بگڑائی کرنا المشرف - بگڑان - سرپرست شرفۃ، بالکنی گیلری جہ شرف تشریفۃ - تقریب سرکاری تشریفاتی - سرکاری تقریبات کا منظم شرقی - مشرقی مالک -</p>	<p>شان - جہ شئون : حالات، معاملات کیفیات، مزدوریات شبک - شبکہ - جال - جالی۔ اشتباک : الجھاؤ، تضاد، جدوجہد شبک - سگریٹ پائپ جھکی نے۔ شبکار - سلاٹس دار کھڑکی - ج شبائیٹ - مشبک - شبہ جزیرۃ - جزیرہ نما۔ شبہ رستی - نیم سرکاری شتو - مشتی - گرم مقام جہاں موسم سراگزر جائے جہ مشتیات - شعب مشعجب - بک کھوئی - شجہ تشبیح - بہت افزائی شخط - شخطیۃ - دیا سلائی - شحن - شحنا - کشتی یا جہاز پر سامان لاڈنا۔ شحن و شحنتہ - وزن لہو - لاوی لاڈا جانے والا سامان شد ے شدن و ذکا - جماعت سے الگ ہونا - خلاف قیاس ہونا، مخالف اصول ہونا -</p>	<p>سحق - لمبزی، عظمت (کلمہ تعظیم) جو مولا شامی قائدان کے افراد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی اعلیٰ حضرت، عالی جناب سناوۃ - چھپا، سانبان - سنن - رسید - داؤد پروثیہ، بڑا سندات - دستاویزات مستندات - دستاویزات سہم - کمپنی کا حصہ - غیر مساہم - حیدر دار ساہم و اسہم فی حصہ لینا سہم ناری - مالک - سیم ساحۃ - میدان - گراؤنڈ - ساحۃ المصارعۃ کشتی کا ڈنگل سود - ساڈے، چھاپا جانا، سکھ جانا۔ سیادۃ، اقتدار - بالادستی - ستید - با اقتدار - مسٹر - جناب ستیدات - خواتین - سوری - ملک شام سوری - ملک شام کا بھنے والا۔ سوع - ساعۃ، گھڑی ساعاتی - گھڑی ساد - سوقی - بازار - مارکیٹ -</p>

الشرق الادنى - مشرق قریب
الشرق الاقصى - مشرق بید
شُرک - جال، پندہ -
شُرکۃ و شُرکۃ - کہن - زم -

ج شُرکات -
شُرک و شُرک - حصہ دار
اشتراک - اخبار یا رسالہ کی خریداری
اخبار یا رسالہ کا چندہ -
اشتراک - سر شلٹ -
اشتراکیتہ - سر شلٹ -
اشتراکیتہ متطبیقہ - کمیزم
شطب - شطب - مٹانا، تلمذ کرنا
نام خارج کرنا -

شُعَب - پبلک، عوام ج شعوب
شُعَبی - عوامی، جمہوری
شِعَار - نشان، اتیاز، بیج - مرک
شعور - بزر، ویدان
شعل - مشعل علی - مشعل بردار
شعب - بدامنی، شرارت، خاد، ہنگام
شغاب و مشاعب - غنڈہ -
فسادی -

مشاعبہ - غذاء گردی فساد گیزی
شعل - مشعل - مہرویت -
شغل تشغیل کام پر لگانا، مصروف بنانا
مشین چالو کرنا -

شغال - کارکن، مزدور، بید مصروف
شغائی - سفارشی -
شفہی - شفوی - دہانی -
شنو - مستشرق - ہنپال ج

مستشقیات

شُقۃ - عمارت کی ایک منزل - ایک حقہ
شکار - شکارۃ - دوس وغیرہ سیکنے کی جالی
بیگ - خیل -

شکل الکلمۃ - شکل - اعراب لگانا
تشکیل - مصدر کرنا، شکل دینا -

تشکیل دنیا، کیلی وغیرہ بنانا -
تشکیلات - انتظامات - تیاریاں
مشکلۃ - پیچیدہ مسئلہ، الجھن، قہقہہ
مشکول - با اعراب

شل - شلال - آبشار ج - شلالاٹ
شمع - شمعۃ - کپڑے لگانے کا ٹک
یا اسپنڈ -
مشتمع - آہل کلا تھہ - موم کی پالش کیا
ہوا کپڑا - چکن کپڑا -
شتمعۃ - لالین کا کلا - برز -

شنت - شنتۃ - بیگ، خیل -
شہید المخلص - شہود - فریاد
شہادۃ - تصدیق نامہ - سرٹیفکیٹ -
سنہ فراغت - ڈیپلوما ج - شہادات
الشاہدۃ - رجسٹر مراسلات میں میں خطوط
کی نقول محفوظ رکھی جاتی ہیں -

شہرا البندقیۃ - شہر آبدوق
تانا - اشہار - اعلان -
شہی - مرغوب - مقبول -

شور، شارة - نشان خاص
اشارۃ برقیۃ - ٹیلیگرام
اشارۃ سکتۃ الحدید - ریلوے
سگن -

اشربی - سگن بین -
المشیور - فیلڈ مارشل
مستشار - مُشر -
شوش - مشامۃ - پردہ سمیں -

شاولیش - سارجٹ - دس سپاہیوں کا
انسز -

شوی - شوآیتہ - مہونے اور سیکنے
کا آلہ - فرالی پن کر دچھا -

شیت - چینٹ - ایک کپڑا -
شیعہ - شائعۃ - افواہ ج - شائعات

شیوع - اشاعت
شیوہ - کیرنزم -

اشاعۃ - افواہ ج - اشاعات

ص

صالت - برادکرہ - کمرۃ استقبال
صبح - مصباح - لب -
صبح - مصبح - سیکنے کی جالی -
صبح - مصبغۃ - رنگائی کا کارخانہ
صبن - صبان - صابن ساز -
صابونۃ - صابن کی ٹکیہ -
مصنبنۃ - صابن کا کارخانہ
صحیح - صحیح - صحت افزا صحت سے
مستقل

صحف - اخبارات - دادر صحیفہ -
صحاف - اخبار فروش
صحافۃ - اخبار نویسی
صحفی - اخبار نویس -

صحف - پلیٹ ج - صحون
صدد - سلسلہ، تعلق - بصد و کذا
فلاں چیز کے سلسلہ میں -

صد راکیتۃ - پیش لفظ لکھنا -
اصدار - جاری کرنا، شائع کرنا -
تصدیر - کتاب کا پیش لفظ، پروتی
مالک میں مال بھیجا (اکسپورٹ)
صادر - باہر جانے والا مال
صادرات - برآمدات -

مصدر - سرچشمہ ج - مصادر
مصادر علیکمۃ - باخبر طبقہ
صدرة - صدیری، واسکٹ، صدر
صدریۃ - مردوں کا سینہ بند

صدق - صادق علی... مصداقۃ
منظوری دنیا - جائزہ قرار دینا -

صرح بکنا - بیان دینا - وضاحت کرنا
تقریر یجب - بیان - اجازت نامہ -

اعلان - اقرار نامہ
صرخ - صاروخ، راکٹ ج - صواريخ

صاروخہ : تار پیڈو۔
صرع : صراعتہ کشتی

مَصْرَع : اٹھارہ
مُصَارَع : سپردان

مُصَارَعَة : سپردانی کشتی۔
صَرَف : صرفاً : خرچ کرنا۔ نوٹ
مہینا۔ رقم کا بنانا۔

تَصَرَّف : کارروائی، تدبیر، روش
تَصَرُّفَات : طور طریق، افعال و
حرکات

صَرَّاف : کیشیر۔ تحویدار۔ رقم
یا سکہ تبدیل کرنے والا۔

مَصْرُف : ۔۔۔ بک ج مصارف
مَصْرِفُ الْمَاءِ : پانی کی نالی۔

مصرف : خرچہ۔ مصارف
مصاريف الدعوی : دیگری خرچ

متصرف : با اختیار۔

صفحہ : مصفحات : زرہ پوش
گاڑیاں۔ بکتر بند گاڑیاں۔

صفیحة : معدنی چادر۔ پیٹ
ج صفائح۔

صَفَرٌ تَقْرِیرٌ : سیٹی بجانا۔
صَفَّارَةٌ : سیٹی۔

صَفَّ الحُرُوفَ : صفا۔ کمپوز کرنا
لوہے کے حروف کو ترتیب دینا

صَفَّتْ : لائق۔ تعلیمی درجہ یکلاس ج۔
صُفُوف : ۔۔۔

صَفَات : کمپوزیٹر۔

مقل : مقلد۔ پالش کرنا۔

صَقِيلٌ : پالش کیا ہوا۔ چکن چکدار

صلح : صلاحیت، لیاقت اختیار۔

صالح : مفاد، منفعت۔

مَصْلَحَةٌ : حکم، فائدہ۔

صَلَصَلَةٌ : شور بارواں

صَمَمٌ : تقسیم خاکہ۔ ڈیزائن

ج تصامیم

صُنُوس : مینٹو ج صنایع۔

صَنَعَ البلاد تصنیعاً : ملک کو صنعتی
بنانا۔

صِنَاعِي : صنعتی۔ مصنوعی

صَانِع : کارگر ج : صُنَاع

مَصْنَع : کارخانہ۔ مل۔ فیکٹری

ج مصانع۔

مَصْنُوعِيَّة : اجرت۔ مزدوری

صَهْرٌ : صہرہ۔ مدنیات کو بچھلانا

صِهْرِيح : پانی کا تالاب۔ ٹنکی، حوض

ریلوے انجن کے پیچھے لگا ہوا ڈبا۔

صَوَّبَ البید : نشانہ لگانا۔ رخ کرنا

صَوَّتْ تَقْوِيَّتاً : دھک دینا۔

صَوَّتْ : دھک ج اصوات

مُصَوِّت : ووٹر۔ الیکشن میں لئے

دینے والے۔

صَوَاد : سوڈا۔

صودا کا ویٹ۔ سوڈا کا ٹک

صورة : نقل۔ کاپی، نسخہ۔ نوٹ۔

تصویر : فوٹو۔ تصویر۔

مصورة : کبیرہ۔

صَيِّغَةُ القانون : قانونی اسلوب، طرز

صَوْمَعَةٌ : کین۔ چھوٹا کبیرہ۔

صَوَان : ماری۔ بکس۔

صِيدٌ : مصیدۃ : پھندا۔ جال

چرچہ دان۔

صَيِّدٌ لَمَّ : دوام سازی

صَيِّدٌ لَمَّ : فارمیسی، انگریزی دواخانہ

صَيِّدٌ لَمَّ : صَبَدٌ لَمَّ : انگریزی دواخانہ

فروخت کرنے والا۔

صير : مصیر، انجام قسمت۔

صَيِّفٌ تَصْنِيفاً : گرمی کا موسم گزارنا

مَصَيِّفٌ : ٹھنڈا مقام، موسم گرما

گزارنے کی جگہ۔

صَيِّنِيَّة - ٹی۔ صینی۔

ض

ضَبَّ البَاب : دروازہ کو مٹھنی تالہ
لگانا۔

ضَبَّةُ البَاب : مٹھنی تالہ چٹھنی

ضَبْط : لٹ، قطع۔

مَنْبُطِيَّة : پولس اسٹیشن۔

ضَايِط : اصرع ضباط

ضابطۃ : پولس

مَضْبُطَةٌ : معاہدہ کا ردائی

صَنَعٌ : مَصْنَعَةٌ : پپ۔ ہینڈ پیپ

پیکاری ج مصنعات

صَرْنَجَانَةٌ : دارالغزب جہاں سکتے

دُعاے جاتے ہیں۔

صَدْرِيَّة : ٹیکس ج صرائب

اضطراب : ہنگامہ، گرہ بڑ۔

مِضْرَب : ہلا۔ بیٹ۔

ضغط : دباؤ۔ زور

ضمم ... الی مضمناً : شامل کرنا

صَنِيفٌ : مَصْنِيفٌ : مہمان خانہ

اضافۃ : زیادتی۔ شمرلیت

اضافی : زائد اور نام

ضيق : مضیق : تنگنائے۔ دوسمزد

کا درمیانی راستہ۔

ط

طَبِيبٌ :۔۔۔ معالج۔ ڈاکٹر حکیم

طَبِيبٌ جَرَّاحٌ : دسرجن

طَبْعَةٌ : ادیشن۔

طابع : نشان چھاپ مر ج

طَوَابِعُ دُلاک ٹمکٹ۔

مطبوعہ : پریس۔ چھاپ خانہ

مطبوعات : چھاپہ مواد۔

طباق : تباہ۔

صَيِّدٌ لَمَّ : دوام سازی

صَيِّدٌ لَمَّ : فارمیسی، انگریزی دواخانہ

صَيِّدٌ لَمَّ : صَبَدٌ لَمَّ : انگریزی دواخانہ

فروخت کرنے والا۔

صير : مصیر، انجام قسمت۔

صَيِّفٌ تَصْنِيفاً : گرمی کا موسم گزارنا

مَصَيِّفٌ : ٹھنڈا مقام، موسم گرما

گزارنے کی جگہ۔

ظ ۹۰

ظرف - حالت، نفاذ، کار توس

جہ ظروف

ظلمۃ - سائبان جہ ظلل

مظلمۃ - چھتری جہ مظلات

مظلی: چھاتہ بردار فوج کا سپاہی

غ

عباً تعبشۃ: بھرتی کرنا - پیک کرنا

عبء: بوجھ - ذمہ داری جہ اعباء

تعبیۃ - پیکنگ بھرتی

عبید - عکود بیتہ و استعباد - غلامی

مستعبد: غلام - محکوم -

عبد الطریق تعبیداً: راستہ ہوا کرنا

عبر - عبوری: عبرت آموز

عبارة: تعبیر، تفصیل، طرز ادا

عابر: سرسری

عبق: غبقرتی و بالکال جہ عباقرة

عبقریۃ: کمال، نظری قابلیت

عجل: عاجل - ذوری، ہنگامی

مستعجل: ہنگامی - ارجح

مستعجلۃ: تیز رفتاری رکاوٹی -

عجم - معجم: ڈکشنری جہ معاجم

عجن - معجون الاسنان: لوتھ پیٹ

عدد - عداد: میٹر، عدا دات

عدۃ: سامان - تیاری جہ عداد

عداسۃ: چشمہ وغیرہ کا شیشہ

عدل - تعدیل: ترمیم جہ تعدیلات

معدل: اوسط - رفتار -

عدنان تعدیتاً: کان کھودنا کان سے

معدنیات نکالنا -

معدن - کان کن

عدوان - جارحیت

عدائی: جارحانہ

طلعتۃ، شرٹ - فار - فارنگ کی آواز

طلم - مطلقۃ، بین -

طلسمۃ: وارپ - نل

طلی - طلیا، روغن کرنا - پالش کرنا -

طلاید، روغن - پالش، رنگ - جہ:

أطلیۃ -

طھی - طاهی - ہارچی جہ طہاء

طوب - اینٹ - واطوبۃ

طواب: اینٹ بنانے والے -

طوبچی، تریچی

طوبجیۃ: تریخانہ

طوس - تطوس - تبدیلی انقلاب جہ

تطورات

تطوری: تغیر پذیر

طور بید، تارپیڈو - تباہ کن بمی جہاز

طوع تطویجاً - رضا کار بنانا -

تطوع، رضا کار بننا - والنیری

متطوع، رضا کار - والنیر

طوف - طاف البلاد: دورہ کرنا

طواف: سیاح، ایجنٹ - وصال

طافۃ: گردہ - فرقہ -

طائف: فرقہ دارانہ -

طوقۃ - تطویقا، گھیراؤ - احاطہ کرنا

طاقۃ: محبوبہ، گھبراہٹ، کھڑکی رشک

طاقیۃ، لڑپی جہ طاقیات

طوق القمیص: کار

طول - طوال: میں، ڈائرکٹ

خط طوال: بین لائن -

طوی - طوایہ: فرائی پی

طیب - طابۃ (گینڈا) ہٹا

طیران - ہوا بازی، پرواز

طیارہ ہوا باز

طیارۃ: ہوائی جہاز - پتنگ -

طاثرۃ: ہوائی جہاز

مطار: ہوائی اڈہ، ایرپورٹ

طابق: مکان کی ایک منزل جہ طوابق

طبلة الفخاریات: ساؤنڈ بکس

طبوشۃ - طابوشۃ: تنور، بیکری،

بسکٹ وغیرہ کا کارخانہ

طببان العجلۃ - ماسٹر -

طبیبۃ: پستول

طاجن، فرانسنگ پن - کڑچھا

طحن - طاحونۃ - آٹا پیسنے کا انجن -

مطعمۃ: آٹے کا مل

طرا - طاری: ہنگامی، غیر متوقع

طواری، ہنگامی حالات، ایمرجنسی

طرب: مطرب، نغمہ ساز - گانے والا

طربید - تاپیڈو -

طرح - مظاہرۃ - بہت بازی کرنا

أطروحة: تھیسس، تحقیق موضوع

جودگری کے معنوں کے لئے مقرر کیا

جائے -

طرڈ - پارسل - پکیٹ جہ طردہ -

طراد کردہ - جنگل جہاز، پل

طربید، آفارہ -

طرز - تطریز: امیرامیری، کشیدہ کاری

طیراز - ماڈل، ساخت، نیشن -

طرت - تطرت: انتہا پسندی

طرم - طارمۃ: لکڑی کا کرہ - کین

طرمبۃ: پپ، سرخ، پیکاری

طست: سلفی - احمق دھونے کا برتن -

طعم - مطعم: ریسٹورنٹ کھانے

کی دکان جہ مطاعم -

طفأ - مطلقۃ - طفاۃ: فائر انجن

آگ بجھانے کا آلہ -

طقس - موسم، متوار، میلہ جہ طقوس

طقم: کسی چیز کا سیٹ، مجموعہ، جڑا

طلعیۃ: کاندھا کا ایک شیٹ -

طلس - آطلس - اٹلس - ریشمی کپڑا

طلق - إطلاق: راکٹ کرنا، گولی چلانا

www.waseemziyai.com

آپشن - ج. حیات
 عقی تقصید - پوشیدہ رکنا گمراہ کرنا
 طوع - طاعت، تقلید
 عنصر - اصل، جنس، مادہ، جوہر
 عناصر - اجزاء ترکیب
 عنف و تشدد
 اللہ عنقیقہ - دم نشود
 عنق - استغنی - مذہب یا عقیدہ
 اختیار کرنا
 عنق الکتاب - عنوان یا مکرنا
 عنونہ - پتہ لکنا، عنوان لگانا
 عنوان - پتہ ج. عناوین
 معنوی - روحانی مسئلہ
 عہد - تعویذ و نگران، دیکھنا
 العہد الجدید - انجیل
 العہد القدیم - توراہ
 معہد - ادارہ ج. معاہدہ
 متعین - سردار - ٹھیکدار
 عید - جشن - شہوار - تقریب
 عید فصحی - سہوار جری
 تعیند - جشن سانا عید کی مبارکباد دینا
 عود - عادۃ - معمول
 (فوق) العادۃ - غیر معمولی
 عادتی - معمولی - عام - رائج
 متداول - قدرتی
 عادات و آثار قدیمہ
 عاشق - فائدہ - ج. عواشد
 عواشد - ٹیکس، مال گزاری
 عیادۃ طبیہ - مطب
 عود الشکاب - پھول بھڑی
 عور - مستعار - مصنوعی - چھوٹا
 فوق - عواقبہ - ریوے بریک بین
 عول - عاشقہ - کنبہ فیملی بھرات
 ج. عاقلات

عور - عوامۃ - پھل کے کانٹے کے ساق
 ورمی ہڈی بڑی کڑی
 عون - اے ذہن و راستیہ - تعلیمی
 ولفیہ - اسکا ریشپ
 عیر - عایرہ - چانچا - ناپ تول کرنا
 مسک کرنا
 عیار - مقدار - ناپ ج. عیارات
 عیار تارقی - شرٹ
 عیار (۲) وزن - ہاٹ
 عیار - کرین - آہرہ ثقیل
 عیش - چپاتی
 عیاش - چپاتی فروش
 معاش - القاعدہ - پشن
 عیل - عائلی - خاندانی، گھریلو
 عیالہ - کفالت، پرورش
 عین - عینی - چشم دید - عینی
 عوینات - چشمہ - ٹینک
 تعین - نام زدگی، تقرر

ع...

عرس - بیچ، پودا
 عریستہ - نرسری پودا
 عرفتہ - سینڈل (ایک قسم کا جوتا)
 عرفتہ - بالافانہ - کمرہ - دیوان چیمبر
 تجارتیہ - ایوان تجارت
 غیرہ - غرامتہ - جرمانہ ادا کرنا
 غرامتہ - جرمانہ - تاوان
 غرامتی - جرمانہ کا - عشقیہ
 عرد - عرائے عذی تعویذ
 ریش سے جوڑنا
 عردہ - ریش - ایسا مادہ جس سے کوئی چیز جوڑی جائے
 فذل - کٹائی - سوت
 معزل - سرت کاتنے کی مشین
 عزد - عزدۃ - پریش - جلد

معزنی - ظالمہ - میدان جنگ
 غطو - غطاؤ - دھکن - غلات - سرپوش
 ج. اغطیہ
 غفر - غفیر - روا - پرہ دار
 غفارۃ - علماء یہود کا لباس
 غلت - غلت الکتاب و غیرہ
 کورچر دھانا
 غلات - کور - ٹائیل، سرورق
 ج. اغلظہ
 غلل - استغلال - نفع اندوزی
 غلی - علائقہ - سوار - پانی گرم کرینکا
 برتن
 مغلی الاعشاب - جوشاندہ
 غلیسرین - گلیسرین
 غلیون المتدخین - تباہکار پاپ
 حقہ

عمر - مغامرۃ - جانبازی

مغامرہ - جانباز

عور - مغوار ج. مغاویہ

جنگ جو - دلیر

غاز - گیس ج. غازات

(۲) پڑول، مٹی کا تیل

غوص - غواصتہ - غوطہ رشتی

مقاہض - غوطہ گاہ

غیبہ - بے ہوش کرنا

(عقار) مغیب - بے ہوش کرنیوالی

دوا

غیر - غیار - تبادلہ

(قوٹح) الغیار - فالتو پڑے

غیطانی - کھیت والا - باغ والا

ف

فال - متفائل - پر امید

فدریقہ - کارخانہ

فتح - فتاحۃ عکب - ٹہکھرنے کی پانی

مفتاح - ریوے کا ٹاہنے کا آلہ
 مفتاحی - ریوے کا ٹاہنے والا
 فتر - فاقہ - کم مہمت، نیم گرم
 فاتورۃ - بل حساب، نوٹہ
 متفتور - غیر مسلسل
 ففتش - تفتیش - تحقیق کرنا، تلاش کرنا
 جانیچ پروتال کرنا -
 مفتش - انسپکٹر
 مفتش عامر - انسپکٹر جنرل
 مفتش اول، چیمپ انسپکٹر
 مفتش ثانی، سب انسپکٹر
 فتن - فتنان، فتن، فتنہ انگیز
 سمر انگیز
 فتویٰ - استفتاء - استعجاب
 قانوی رائے طلبی - ریفرنڈم
 قجر - آواز، شروع
 فخص - معاینہ، جانچ، ٹسٹ
 ج فخص -
 فاحص - آڈیٹر حسابات، انکوائیرر
 جانچ کنندہ -
 فحل - استفحل الاہر، سنگین بھٹا
 فضم - مضموی، کاربن
 فخر - اعزاز، سر بلندی
 فخری، اعزازی
 فخراتی (روا) مٹی کے برتن بنانے والا
 فایر - شاندار، بھرپور کار
 فاحورۃ - مٹی برتن بنانے کا کارخانہ
 مفخرۃ - قابل فخر کارنامہ
 فخم - فخامة، شان و شوکت عظمت
 تعلیمی لقب جو منان ہو کر استعمال
 ہوتا ہے فخامة الرئيس (اور
 صاحب فخامة عزت مآب
 فدای - فدائی، جنگی رضا کار
 فدرج - تفریح علی... سیر کرنا تماشہ دیکھنا
 تقریجیۃ - جھڑک، روشندان - ج

تغاریج -
 فردخ ورق، کاذبات کا ایک شیٹ
 فرد، استول - ریوالور -
 فردز - فردز، خطوط اور کاذبات کی
 چھٹی کرنا -
 فردۃ - شطرنج کی رانی
 فرداز الحلیب، کریم نکالنے کی مشین
 فردیز - کارنس ج، افاریز
 فردش - تفریش، کپڑوں پر برش پھیرنا -
 فردشۃ - گہا
 فردشۃ، برطس -
 فرداش، چراسی، خاموم
 مفرد و شامہ - گھریلو سامان، فرنیچر
 فردشینۃ - بالوں کا کپ
 فردس - فرصۃ، موقع، چانس ج، فرص
 فردس - فرصۃ، سرمدھنا، مقرر کرنا
 فردط، روا، مال ماندہ، نفع
 مفردط - انتہا پسند، فضول خرچ
 فردع، شاخ، برائے - سیکشن
 فردع، تفردیغاً - جہاز وغیرہ سے سامان
 اتارنا - سانچہ میں ڈالنا -
 فردع، خالی ہونا، سبکدوش ہونا -
 فرداع، خالی جگہ، بیکاری
 فردغات - خالی جگہیں -
 فردق، امتیاز - بلنس (حساب میں)
 فردقۃ، گروہ، گروپ - پارٹی
 فردج کا ایک ڈویژن -
 فردیق - جماعت پارٹی، ٹیم
 لفٹیننٹ (فوجی عہدہ)
 بالفردیق - بالتفصیل - ریٹیل
 میں خوردہ بالجملۃ کی ضد
 مفردق - نقطۃ انفصال، مرکز اختلاف
 مفردق الطرق، چرواہا
 فردقۃ - دھماکہ
 مفردقعات - دھماکہ خیز اشیاء -

فردی - غیرہ -
 فردک - فردک - دراک ایک قسم کا لباس
 فردم - فردم، قیمر کرنا -
 فردامۃ - قیمر کرنے کی مشین -
 فردمۃ المطبوعۃ - پریس کا فرم
 فردمان - حکم عالی - فرمان
 فردملۃ - بریک
 فردملجی - بریک لگانے والا -
 فردن - تنور - نان ہائی - دوکان بیکری
 فردک ریوے کا کارخانہ، بھٹی -
 ج افراد
 فردان - سبکدوش وغیرہ کا رجبہ -
 فردنجه - انگریز جیسا بنانا، درنگی بنانا
 فردنجی - یورپین - انگریز -
 فردنسا، فرانس -
 فردنس، فرسادی، فرانسسی
 فردنۃ - تعطیل، تفریح ج، فستہ -
 فردیانی وقفہ، گنجائش -
 فردنۃ - گھر کا عین
 فردنیۃ الماء - پانی کا کارخانہ
 فردنۃ - فاشینۃ -
 ایک ایٹا لین سیر -
 فردنۃ - فاشن -
 فردنۃ کا قوس - ج، فٹنگ مسٹ -
 فردن - مفصل، فٹنٹر -
 فصل - فصل، خالص کرنا، نیم کاٹا
 فصل تفصیل - بیکہ واکاٹنا، حققت
 فصل کرنا - تقسیم کرنا -
 تفصیلہ، کنگ -
 فصل - تقریق، تقیم، ڈرامہ کا منظر
 اسکول زم، جماعت - لیصلہ -
 فصیلۃ - کتبہ، قسم -
 فصلۃ - کاما، واو معکوس (ہا)
 انفصالیۃ - علیحدگی پسندی -
 انفصالیون - علیحدگی پسند افراد -

مفصلہ: قبضہ جس پر کرار لکھوتا ہے
 فضل تفضیلاً پسند کرنا۔ ترجیح دینا
 مفضل: محبوب، پسندیدہ، مقبول
 فضیلہ: عیار و مشائخ کے ناموں
 کے ساتھ بطور اعزاز استعمال ہوتا ہے
 فضیلۃ الشیخ: صاحب الفضیلۃ
 فطر: فطوری، ناشتہ۔
 فطیر: غیر روٹی، ایک پٹری
 جو فطانت سے۔
 فطانت: روٹی، ایک پٹری بنا کر ملا۔
 فعل: اشتغال، اشتغال، تاثر۔
 مفعول: اثر، معمول۔
 مشتعل: جلی، من گھڑت
 غامض: تاثیر
 فعال: مؤثر
 فاعل: مزدور جو فعل کرتا
 فقتل: تفتقہ، جائزہ لینا، عبادت کرنا
 الفقیہ: متقی، مرحوم
 فقرۃ: پیراگراف، جملہ جو فقرات
 فقرۃ: خیال، نظریہ۔
 الفکریات: آئیڈیالوجی
 مفکرۃ: یادداشت، میمورنڈم
 مفکرۃ: یادداشت،
 مفکرۃ: جیب، نوٹ بک
 مفکرۃ: یومیۃ، روزنامہ
 فکت: فکا، پرزے الگ کرنا۔
 فیج: وغیرہ کھولنا، مہر توڑنا۔ جوڑ
 یا بڈی علیحدہ کرنا۔ ڈھیلا کرنا۔
 انفکالٹ: ڈھیلا ہونا۔ کھلنا۔
 جوڑ ہلنا۔ جوڑ کھلنا۔
 فکتۃ: نفوذ، زیر کاری، پیچ۔
 فکت: پیچ، کس۔ چابی
 فکیر: دلچسپ
 فکارتی: مزاحیہ۔
 فاکہائی: میدہ فروش۔

فلاح: فلاحۃ، کاشتکاری۔
 باغ کاری۔
 فلاحی: دیہاتی، کاشتکاری۔
 فلدن: فولاد۔ فولاد۔
 فلفلی: چٹپٹا۔
 فیلیم: فلم، ریل جو افلام
 فلدنہ: ریل سے پڑی کاسپیئر
 فلم السیما: اسگریٹ ہولڈر۔
 فنی: فانوس، قندیل، لالین
 فنغرات: گراموفون۔
 فنیلۃ: فلانین۔ ایک قسم کا کپڑا۔
 فنق: آرٹ، کرتب جو فنون
 الفنون الجمیلۃ: فنون لطیفہ
 فنان: آرٹسٹ، فن کار۔ ماہر
 فنیک: دمہ، فنیل۔ ایک کپڑا مار دوا۔
 فو من: فوٹو، فوٹو، اختیار
 دنیا۔
 فادۃ: بات چیت کرنا
 فوضی: غیر منظم، منتشر۔
 فوضوئیۃ: لاقانونیت، انارکری
 فوضوی: لاقانونیت، پسند
 انارکریٹ۔
 تفویض: اختیار، وارنٹ پاور
 مفاوضات: رسمی بات چیت
 مفوض: با اختیار۔
 مفوضیۃ: لیکشن، سفارتخانہ
 سے کم درجہ۔
 فوطۃ: تولیہ۔
 فیوت و فن: گھوڑا بگی۔
 فیل: فائدہ، مال، سود۔
 فیشتہ: الکھو باء۔ ایکڑ ک پلگ
 فیشتہ: ٹوکن
 فیضات: طغیان، سیلاب، طوفان
 ج فیضات۔
 فاضل: لغوی، لغوی، آتا

فائض، جاری
 فائض، سود، نفع
 فائض، سود خور
 ق
 قبریت: قبر کا کتبہ۔
 قبض: ملیں، گرفتار کرنا۔
 قبض: گرفت، پکڑ، وصولیابی۔
 قبضہ: ہینڈل، قبضہ۔
 قبا: بھن، وصول کنندہ۔
 مقبوض: وصول شدہ۔
 قبطان: کپتان۔
 قبط: بگل۔
 قبضۃ: دھبہ، انگریزی ٹوپی
 قبطات: کھڑاؤں، ہریک گانے کا
 ہینڈل۔
 قیل... سے قبول، منظور کرنا۔
 قابکۃ: طاقتات کرنا۔
 قبلی: حینوی، جانب حبیب
 قبالة: ذمہ داری، معاہدہ۔
 قبالة: دایہ گری۔
 قبول: منظوری، تسلیم دینا۔
 قابل: منظور کنندہ، آئندہ۔
 قابلیۃ: دایہ، ہڈوائف۔
 اقبال: ترجمہ، رجوع، واپس۔
 قدح: قداۃ، اسگریٹ لائٹر۔
 قدر: تقدیر، اندازہ، تخمینہ
 قدرانی۔
 مقیدۃ: سکت، بہت، طاقت
 قدام... تقدیم، پیش کرنا۔ ترقی دینا
 قنارت کرنا۔
 مقدم: مقرر یا شاعر کا قنارت
 کرائے والا۔
 تقدہ: ترقی کرنا
 قدم: فٹ (پہاڑ میں)

استقد مہ - طلب کرنا، حاضر کرنا

قدّ مبیّہ، ڈاکٹر وغیرہ کی نفیس

نقد مہ، پیش کش، نذرانہ

نقد بھر: پیش کش، انٹروکشن

تعارف

قدّات القنابل - قذائف، بیماری کرنا

قذیفۃ ناریتہ، پٹاخہ، بم، گرنہ

جہ قذائف

قدّاء - مقرر، آرہے، پڑھنے کا اسٹینڈ

قرب - مقرب، میل سکوپ

قروح - اقتراح، تجویز، جہ اقتراح

مقترّح، تجویز، تجویز کردہ

قدّرم تقریر: طے کرنا - فیصلہ کرنا

بیان کرنا، گمراہی دینا

قدّار، پاس شدہ تجویز، قرارداد

جہ قرارداد

قارّة: خشکی، برانظم، قارات

تقریر: رپورٹ، جہ تقریر

مقرّر - صدر مقام، بیڈ، کمرہ

قرص، بیکہ، ٹیبلٹ، ٹیبلٹوں کا

قرط - قید کا سیتہ: اسیشز

قرقوشٹہ: تختہ لکھ، جڑھری

قِرْمِید - لال پختہ اینٹ، کپریں

قرش کا نال، پداسٹر

قِرْمِید: سرخ رنگ

قوت - قریبہ - پیری - جہ قریب

قِرْلَقِیّ اللّون - کتھی رنگ کا

قردوی: دیہاتی

قز - قزاق، قزاق

قِسْم: شعبہ جہ آقسام

قِسْمَہ - رسید کا مثنیٰ جہ قسام

قَسَط - قسط، بالائی اتارنا، چیلنا

قَسَط - حرف چیلنے کا چاقو

قَصْد - اقتصاد - کفایت شاعری

مال کر خاص تدبیر سے خرچ کرنا

اعمالا اقتصاد - علم معاشیات

وہ علم جس میں دولت کی پیدائش اور

تقسیم سے سمجھ کی جائے

قصیر، قلی، سانگا، سانگا لگانے کا

مسالہ

قصرتیہ - گلا، پیشاب رکھنے کا برتن

قصرتیہ، ہزار

مقصود، سینما یا ہوٹل کا کپن

غیرت کا کمرہ جہ مقاصد

قصّة قصیدہ - افسانہ

قصّة خیالیہ - ناول

قصصی، قصہ نویس - ناولسٹ

قصّة، کشنگ - کائے کا طرد

قصی - اقصاد عن المنصب

مہرے الگ کرنا

قضب - اقتضاب - اقتصار

قضیب: ریلوے پٹری جہ قضبان

مقضّب: شاخ تراش کینچی

قضن - اقض مضجعه - بیزکر

حرام کرنا

قضی - قضیۃ - مقدمہ، جگہ، مسئلہ

قاضا الی الحاکم کسی کے خلاف

مقدمہ دائر کرنا

قضاء: فیصلہ، مقدمہ، قانون

جہ اقضیۃ

دار القضا و عدالت، بکری

قضائی، عدالتی، مقداتی

قاضی، محکمہ، جہ جلس

قاضی التحقیق - انفر تحقیقات

قطر - قطار - ریل گاڑی جہ قطر

قاطرة - (تخن ریلوے)

قطر: ملک، صوبہ جہ قطار

قطران: تارکول

قطع: اقتطاع: تنخواہ کا حصہ وضع کرنا

استقطّع أرضاً - زمین الاٹ کرنا

قطع - سائز - کشنگ جہ آقطاع

قطع الجیب - پاکٹ سائز

قطاع اکڑ سائز کا اوزار

قطاعی - خوردہ، ریل

بالقطاعی - ریل میں خوردہ میں

(تاجر) القطاعی - خوردہ فروش

اقطاعۃ - جاگیر

اقطاعی، جاگیردار - زمیندار

تقا طیع الوجہ، چہرہ کے اندر

مقا طعمۃ، انتہائی ملائم، صدمہ

جہ مقاطعات

قطف - قطیفہ - مغل، مغل جیلا کپڑا

مقطّعات، منقحات، تراشے

قطن - قطیدہ، تولیہ

قطنی - روٹی کا - سوتی

مقطنہ - روٹی کا کھیت

قعد - تقاعد عن - ریٹائر ہونا

قاعدۃ - ملک کا صدر مقام

بنگلی اڈا جہ قواعد

مقعد، سیٹ، بیچ، صوفہ

مقعد - پنشن - ریٹائرڈ

قلزم - بچا حرم

قلل - آفتہ الی - ... لے جانا منتقل

کرنا

استقلال - خودمندی، آدای

مستقل - خود مختار

قلم - دفتر - کلمہ - ڈیپارٹمنٹ، شعبہ

قلم الادارۃ، ہیڈ آفس

قلم الارردان - سلیٹ پنسل

قلم رصاص - پنسل

قلم حبر - نوٹن پن

قلم الاستعلامات - انکوائری آفس

اقلیم - صوبہ، ملک، ضلع - علاقہ - ج

اقالییم

قیاسی - ریکارڈ، کسی کام کا آخری درجہ
ضرب رقما قیاسیاً - ریکارڈ قائم کرنا
قیاس - پیمائش کنندہ
مقیاس الحصار - محرومی
قائیں بین (الشیشی) - مراد کرنا
قیل - استقلال من الخدمة
مستغنی ہونا، سبکدوش ہونا

ق

کانون الاول - دسمبر کا مہینہ
کانون الثانی - جنوری کا مہینہ
کبت - کبوت - ادروٹ، کشایانگے
کی چھتری
کبج - قابو
کیج العواطف - جذبات پر قابو پانا
کبر - مکبر الصوت، ملاؤڈ اسپیکر
کبریت گندھک، ماس
کبس - کبسا - شگجھ میں کنا دبانہ
دباؤ ڈالنا - چھاپ مارنا
کبش، بجلی کا نیوز
کتاس میکس - پریس شکوہ دبانے کی
مشین
کبشۃ الشیاب - صبا
کتب - کتابت - مضمون کھنا
تصنیف کرنا
اگتتب فی: چیز دینا - اخبار
یا رسالہ کا خریدار بننا
کا تبہ - مراسلت کرنا
کتب - خط - پیغام - نامہ
کتابی - تحریری
کتاب - مدرسہ، مکتب
کتابت - تحریر، کھائی مضمون لگا کر
انشا پر داری
کسبی - کتب فروش

قور - قار - تارکول
قازة، برعظم جہ، قازات
قوۃ تقویۃ - تارکول ملنا
قورمہ، قورمہ، گوشت کا سالن
قوس نصر: محراب فتح، وہ دروازہ جو
کسی جشن وغیرہ میں لگایا جاتا ہے
قوش - قایش - استراحت کرنے کا چمڑہ
قوع - قاعة - الکرہ جہ قاعات
قول - قاولۃ، مؤقاولۃ، معاملہ کرنا
سودا کرنا، ٹھیکہ لینا
مقاول، ٹھیکہ دار
مقاولۃ، کسی کام کا ٹھیکہ
قوم - قائم مقام، ایک فوجی عہدہ
یونیٹنٹ کونسل
قائمت - فہرست، لسٹ، فہرست
جہ قوائیم
قائمة الاسعار - رش نامہ
قائمة الحساب - گزشتہ
قیمت، انگران، بیش قیمت
تقویم البکدان - جنتری
تقویم السنة - کیلنڈر جہ
تقاویم
مقومات - قیمتی اشیاء، بنیادیں
ضروریات - بنیادی اجزاء
مقاومة - مقابلہ
قومیسر (مع) - کشن
قومندان - کمانڈر، کمانڈر
قوة - طاقت - فورس
قوة بحریۃ - بری فوج
قوة بریۃ - زمینی فوج
قوة جویۃ - ایرو فورس، ہوائی فوج
تقویتہ، ہمہ اثراتی، پشت پناہی
مقوی روق - کارڈ بورڈ
قیداط، ایچ جہ قداریط
قیس - قیاس - پیمانہ - ناپ - رقم

اقلیتی - صوبائی برسی
مقلمة، قلمدان، پینل تراش
قلى - مقلی - مقلادۃ، فرامنگ پن
قوس - قاموس - ڈکشنری جہ
قوا میں
قوش - قماش، کپڑا جہ اقبشتہ
قنطرة البناء، ڈاٹ کا پل - ڈاٹ
قنطرة، ڈاٹ
قناطیر البناء، نصف دائرہ نما
قنچ - قنچ التذکر، مصوبی چہرہ
اقتصر - مطمئن کرنا - قائل کرنا
مقنع - تشفی بخش
اقتنع ب... قائل ہو جانا
قوس - قوس، قیص کا کٹ
جہ - آفتان
قتینہ - بوتل، شیشی
قن - قانون الاحوال الشخصیۃ
پرسنل لا -
قانون مدنی - سول لا -
قنو - قنات - نہر، بڑی نالی جہ قنات
قهری - جبری، غیر ارادی، مجبور کن
قہرمان - میرمنشی، انگران
قصر مانتہ - مرتبہ
قہوۃ - کافی
مقہی - کافی ہاؤس جہ مقاہی
قوت - مقیت، غذا بخش
قید - فیود - کنٹرول
فرض القیود علی - کنٹرول
قائم کر دینا
قیادۃ: کمان، رہنمائی، کمانڈری
القیادۃ العلیا: بالی کمان
قواد - دال
قائد - رہنما، لیڈر، کمانڈر کا
جہ قادیۃ
مقود - موٹر گاڑی، جہ مقاد

کُتیب - پمفلٹ ج کُتِیَّات
کُتِیَّۃ: فوج کا ایک ڈویزن
ج کتاب

کاتب - محرر، کلرک ج کتبه -
(۲) مضمون نگار، مؤلف، نقل نویس
ج کتاب

کاتب العقود - رجسٹرار
کاتب علی الآلة - ٹائپسٹ
مکتاب - کتاب، رائٹر -

مکتب - لکھنے کی میز - ڈیسک،
دفتر ج مکاتب

مکتب التلغراف - تار گھر -
مکتب الاسعلامات - دفتر
معلومات، انکوائری آفس -

مکتبة - لائبریری، کتب خانہ
مکاتب - مراسلہ نگار، نامہ نگار

مکاتبة - نامہ نگاری -
کُتِیْنۃ، تاش کے پتے

کتکوت، روا، مرغی کے بچے ج کتاکیت
کُتِلۃ - دھڑا، ہلاک، مختلف ماکہ

کا متجرہ گروہ - ج کُتِل
تکُتِل، دھڑا بندی -

کُتِلۃ امریکیتۃ - امریکن ہلاک
کُتِلۃ آسیوتیتۃ - ایشیائی ہلاک

کُتِلۃ شیوعیتۃ - کمیونسٹ ہلاک
کُتِل - کُتِلۃ البطن - قبض

مکتوم البطن - پیٹ یا مریض
کُتِن - کُتِن، سوت، ایک قسم کا ریشہ

جس سے مضبوط کپڑا تیار کیا جاتا ہے
(نسبیج) الکُتِن - سوتی کپڑا

کُتِبۃ ابریل - اپریل فول -
کُتِبُون - کوئلہ جیسا سیاہ مادہ

ورق کُتِبُون - کاربن پیپر -
کوتون (مخ) کارڈ بورڈ
کرس - کُتِر اس، پمفلٹ، کاپی -

کُتِر اسۃ - پمفلٹ - کاپی
کُتِرۃ - کُتِرۃ - سروطا

کاسوس: پتھر توڑنے کا ہتھیار
کُتِشۃ - انگشتانہ

کُتِشۃ - فہرست، نقشہ ج کُتِشۃ
اکُتِشۃ - نئی دریافت، ایجاد

کُتِشۃ - اسکا ڈٹ - وہ سیہی
جو دشمن کے احوال معلوم کرنے کے لئے
بھیجا جائے -

کُتِشۃ - وہ جماعت جو حضرت خلیفہ
کے لئے تیار کی جائے -

کُتِشۃ - جماعت اسکا ڈٹ کا کام
مُتِشۃ - جاسوسی -

کُتِشۃ - کڑی کی کوٹھڑی، کین -
کُتِشۃ التلیفون - کال بکس

کُتِشۃ الدید بان - سنتری کس
پرہ دار کے کھڑے ہونے کا کین -

کُتِشۃ - اخبار یا کتاب کے تراشوں
کا مربع -

کُتِشۃ - تنظیم، تھراس -
کُتِبۃ - جوئے کی ابروی ج الکعاب

(۲) کُتِبۃ کا پتہ -
کُتِبۃ - کیف -

کُتِبۃ - لائق ج اکفہ -
کُتِبۃ - کُتِبۃ، اہلیت، بیعت -

کُتِبۃ - کُتِبۃ، سامنا کرنا، مقابلہ کرنا
کُتِبۃ کرنا -

کُتِبۃ - جدوجہد، لڑائی، مقابلہ
کُتِبۃ - چھوٹی بستی -

کُتِبۃ - بھیک -
کُتِبۃ - کُتِبۃ، صامن ہونا -

کُتِبۃ - ذمہ داری، ضمانت
کُتِبۃ - ضمانت پرہ -
کُتِبۃ - کُتِبۃ، فن جو اچی کی چٹی
کُتِبۃ، دانت نکالنے کا زہور

کُتِبۃ: کالج ج کُتِبۃ
کُتِبۃ - کیلشیم

کُتِبۃ - مضمون، تقریر -
کُتِبۃ - گلیسرین -

کُتِبۃ - کُتِبۃ، قطار، بریک
کُتِبۃ - کُتِبۃ، ریلوے گارڈ

کُتِبۃ - کُتِبۃ، بڑھی کا زہور
کُتِبۃ - نیمپ شید -

کُتِبۃ - سارنگی -
کُتِبۃ - کُتِبۃ، کارہنہ والا -

کُتِبۃ - کُتِبۃ، چولہا - اسٹود
کُتِبۃ - کُتِبۃ، جنوری

کُتِبۃ - برقانا کی بجائے پہنچانا
کُتِبۃ - بجلی - برق

کُتِبۃ - برق یا ہوا
کُتِبۃ - کُتِبۃ، پل -

کُتِبۃ - کُتِبۃ، آلات
کُتِبۃ - کُتِبۃ، صوبہ ضلع - چھوٹا قصبہ

کُتِبۃ - کُتِبۃ، ڈنڈی دار پیالہ
کُتِبۃ - کُتِبۃ، کاپیانا

کُتِبۃ - کُتِبۃ، سرکھ پیٹ کا رومال
کُتِبۃ - کُتِبۃ، لوگوں کی ٹکڑی - جماعت

کُتِبۃ - کُتِبۃ، وجود - سبب -
کُتِبۃ - کُتِبۃ، عالمی بک مانی -

کُتِبۃ - کُتِبۃ، استری کرنا -
کُتِبۃ - کُتِبۃ، استری - ج مکادی

کُتِبۃ - کُتِبۃ، استری کیا ہوا -
کُتِبۃ - کُتِبۃ، تکیٹ، ایر کنڈیشن

کُتِبۃ - کُتِبۃ، ایر کنڈیشن -
کُتِبۃ - کُتِبۃ، ایک ہزار گرام

کُتِبۃ - کُتِبۃ، کونین - بچا رکی دوا
کُتِبۃ

لایسکی - وائرلیس - بے تار برقی -
لَبْخَة - پلٹس -

لبن - لبانتہ - دودھ کی ڈیری ادوہ
ادرکھن کی دکان -

ملبن - اینٹ کا سانچہ -

مَلْبَنَة - دودھ کی ڈیری کاغٹ
لَجْنَة - کمیشن - کمیٹی - بورڈ - لجان

لعبتہ تابتہ - سب کمیٹی -

لحظ - لاحظتہ - ملاحظہ کرنا - نگرا کی کرنا

ملاحظہ - بگردان - سپرنٹنڈنٹ -

ملاحظہ - ورثہ - رائے - نگرا کی

لحق - التحق بالمدرسة - داخل

ہونا - (التحق به) - تھی ہونا -

مُلْحَق - اضافی - ضمیمہ - ملحقات

(۲) سفارت خانہ کا ایک کمر - (ناچی -

(امتحان) ملحق - سلیمنڈری امتحان

لزم - التزام - پابندی - ذمہ داری

ٹھیکہ ج التزامات

مَلْزَمَة - شکمہ -

ملازم اول - لیفٹیننٹ

ملازم ثان - سیکرٹ لیفٹیننٹ

ملتزم - ٹھیکہ دار - اجارہ دار

مَلْزُومِيَّة - ذمہ داری

لِصَقٌ - متصل - قریب

لَصُوقٌ - پلاسٹر

لطس - ملطاس - پتھر توڑنے کی تھوڑی

لعب - مَلْعَبٌ - کھیل کا میدان - تماشگاہ

ملعب الخیل - سرکس -

لَعْوَن - قانون کا منسوخ ہوجانا -

القار - منسوخ کرنا -

لَفَتٌ - لفتا - توجہ کرنا -

لفتہ - توجہ - ایک نگاہ -

لفح - لِفَاعٌ - مفہ - سرکھ پیٹنے کا پٹا

لفف - لِفَافَةٌ - تپتہ - سگریٹ -

لفيفة تبغ - سگریٹ ج لفافت

مَلَفٌ - ریسر - پیٹنے کا کاغذ

مَلَفَةٌ - اوراق - فائل ج ملقات

لَقَّحَ ... تلقیحاً - ٹیکہ لگانا -

لِقَاح - ٹیکہ - دوا - حودن میں پیچائی

جائے -

لَقَطٌ - ملقط - چھٹی -

لَمْبَة - لمپ

لہب - التهاب - سوزش - ورم

التهاب الرئۃ - منویہ -

التهاب الزائدة الدودية

اپنڈی سائٹس ایک مرض جس میں مٹھی

زائدہ میں ورم ہوجاتی ہے -

لہو - تفریح - کھیل - تماش -

ملہجی - تماش گھر - تمییز - سینما

ج ملاہی -

لوتازیتہ - لٹری -

لوح الارض - تلویحاً - زمین پر تختہ کھانا

لوحة - تختی ج لوحات

لائحتہ - پروگرام - پراس پیکٹس

سرکاری قانون ج لواحق -

مَلَوَحيَّةٌ - سگنل - ج مَلَوَحات

لَوْذٌ - التمر تلویزاً - کھجوریں باہم بھرنا

لوزة الحلق - ٹونسل - غدد

لوکاسندہ - رمح - ہڈی -

لوکب - پیچ دارکیل - اسپرنگ ج

لوالب

لواء - فوج کا برگیلہ

اللواء - میجر جنرل - فوجی عہدہ -

امید التواء - برگیلہ - جرنل -

لسلی - شبینہ - رات -

ح

موتہ - خوراک - روزینہ ج مٹون

تموین - خوراک سپلائی کرنا -

مٹوئی - سوسالہ

مارکتہ - خاص نشان - مارکہ

میتز - میٹر - ناپنے کا گز وغیرہ -

متحہ - دلچسپی - سامان دلچسپی - مٹحہ

مثل - مثل - تمثیل - نمائندگی کرنا

ایکٹنگ کرنا -

مُمَثِّلٌ - نمائندہ - ایکٹر -

مَثَلٌ - اعلیٰ - شاندار روایت ج

المَثَلُ العُلَیاء -

تَمَثَّالٌ - مجسمہ ج تمکا ٹیل -

تمثیل - نمائندگی - ایکٹنگ -

تمثیلیتہ - ڈراما ج تمثیلیات

تمثیلی - ڈرامائی -

مرور - مرور - ٹریفک (حرکت المروء)

تمریر - سامان پاس کرنا - گزرنے کی

اجازت دینا -

موس - مارس العمل - بطور پیشہ

کرتی کام کرنا - پریکٹس کرنا -

مرض مَعْرُوضٌ - تیمار دار -

مَعْرُوضَةٌ - نرس - ج مَعْرُوضَاتٌ

مَسَحَ الارضَ - زمین کی پیمائش کرنا

مَسَحَ الحدائق - جوتے پر پالش کرنا -

مَسَّاحٌ - زمین کا سروے کرنے والا -

(۲) جوتوں پر پالش کرنے والا -

مَسَاحَةٌ - پیمائش - رقبہ - سروے

مَسَاحَةٌ - مٹانے کا رہہ

مِنْسَحَةٌ - پیمائش کا فیستہ -

پامدان -

مَسْكَةٌ - ہینڈل -

مَسَلٌ - قبض - صدارت

مَطَرِيَّةٌ - چھتری -

مِنطَرَة - واٹر پروف - برساتی

مطاط - ربڑ

مدح - مَمْدُوحَةٌ - تمکدان

مَلَطٌ - ملطاً - پلاسٹر کرنا - ہال اڈانا -

مِلَاطٌ - پلاسٹر -

منطقہ: علاقہ، صوبہ، ضلع ج
مناطق -

منطقی - علاقائی
نظر - نظارہ - چشمہ، تماشین -
نظارۃ - انتظام، نظامت
ناظر - ڈاکٹر، مینجر، ناظم
ج نظار

ناظرہ المحطۃ - اسٹیشن ہاؤس
ناظرہ مدرسۃ - ہیڈ ماسٹر
منظار - دوربین -

نہن - نفوذ - اثر و رسوخ

نافذۃ - کھڑکی ج نوافذ
نقطہ - پردل -

نقب - نقیب - افسر، صدر ڈین
نقد - نقدیت - کیش - نقد و پیر
(ورق) النقد - نوٹ -

نقش - مناقشۃ - مباحثہ، مہلی گفتگو
نقص - مناقصۃ - ٹھیکہ جو دوسرے کے
مقابلہ میں کم قیمت پر لیا جائے -

نقطۃ - آئٹم - پوزیشن - نقطہ
نقل - ٹرانسپورٹ -

نقلۃ - اسٹریجر، مزدور اور
زخمیوں، بیماروں کو اٹھانے کی چارپائی
ناقلۃ - بار بردار جہاز ج ناقلۃ

نشر تسمیۃ - نمبر ڈالنا -
نقارۃ - نمبرنگ مشین -

نمس - ناموسیۃ - پھر دان
نمسا - ملک آسٹریلیا -

نمیلۃ - جالیدار الماری -

نمودج - نمونہ ج - نماد ج -

نوبۃ - باری، نمبر

نیابی - پارلمنٹری

نائب - ڈپٹی، نمائندہ عوام - ج لوآب

نیم - منادۃ - جنگی مشق - داؤد بیچ -

نیسات - ماہ اپریل -

نخب - انتخاب کرنا -
ناخب - انتخاب کنندہ - ووٹر

ندب - مندوب - نمائندہ ڈیلیگٹ
مندوب سائر - ہائی کمشنر -

ندال - منڈل - عمل حاضرات
ندوۃ - کلب ج ندوات

نذر ج عن الوطن - نذر و حسابہ گھر ہونا
نازحون - تارکین وطن

نزل - ہوٹل، سرکے -
تنازل عن - دست بردار ہونا -

نذہۃ - تفریح -
منکزۃ - پارک تفریح گاہ

نسبۃ، تناسب، اوسط
مناسبتۃ، سلسلہ، سبب موقع

نسفت - نسفا - ڈائنامٹ سے اڑانا
نساختۃ، تار پید و کشتی -

نشأۃ، ساخت، تعمیر، بنیاد، زندگی
نشئۃ - نسل -

منشی - انشا پرداز
منشآت - تنصیفات

نشر - اشاعت

نشار - نوشار
نشرۃ - اعلان، اعلامیہ سرکلر

یفلٹ ج نشرات -
منشور - سرکلر، گشتی حکم

نشط - نشاط - سرگرمی -
نشت - نشاختۃ - منشفۃ، تولیہ

نشاف، جاذب، پلاٹنگ پیپر -
نصب - نصائب قانونی - کورم

نص - منصۃ - اسٹیج، تقریر کا پلیٹ
فارم

نضح - نضاحۃ - آب پاشی -

نضد - منصدۃ - تپائی کا وٹر

نطق - ناطق - ترجمان

ناطق رسی - سرکاری ترجمان

ملک ج املاک، جائداد
ملک ثابت - غیر منقولہ جائداد

منقول - منقولہ جائداد
مکلاک - دیر تا - فرشتہ -

ملاک الحب - محبت کا دیر تا
ملاک الاراضی - جاگیر داران

منحۃ - عطیہ - تعلیمی وظیفہ ج منحہ -
مہرجان - جشن ج مہرجانات

مہنتہ - پیشہ ج مہنت -
موسی الامن - سیفٹی ریزرو

مول - تمویل - سرمایہ کاری
مؤنۃ - تموینا، سدھنچانا، سپلائی کرنا

مؤنۃ کی اشیا ہم پہنچانا -
مؤنۃ - خوراک و راشن، رسد

تموین - سپلائی، رسد رسانی
میز - امتیاز - رعایت، لائسنس

میل - رجحان ج میل
مین میناء - پورٹ، بندرگاہ

(۲) گھڑی کا ڈائل ج موافق

ن

نارحیل - تاریل
نارحیلۃ - حقہ

نبا - انبویۃ - پاسبان باب
نبنۃ - پیراگات

منبوذ - اچھوت -
نبت - نامن - بندوق وغیرہ کا گھڑا

نتج - نتاج - پیداوار - غلہ -
منتوجات - مصنوعات -

نجمۃ سینما نیۃ - فلم اسٹار
منجم - کان، سرچشمہ ج منجم

نحت - منحت: بسولی

نحات - سنگ تراش -

نحو - نحاہ عن، ملازمت یا خدمت سے

برطرف کر دینا -

<p>و و بر - وابور - ریلوے انجن، اسٹوو و جبتہ - ایک وقت کا کھانا - خوراک و جہ توجیہا - راہنمائی کرنا - اصلاح کرنا توجیہتی - اصلاحی - و حدة - اکائی - پرٹ جہ وحدات ودع - مستودع - گودام - ورد - استیراد - درآمد کرنا - ایراد - آمدنی - پیداوار واردات - درآمات مورد - ذریعہ آمدنی جہ موارد مورد - سامان مہیا کرتے والا - مستورد - امپورٹر - درآمد کنندہ ورشہ - ورکشاپ - ورق النقد - نوٹ -</p>	<p>و راق - کاغذات فروش - کتب فروش - کاغذ ساز - و راقہ - کاغذ فروشی، کاغذ ساز کتب فروشی - وسیط - ثالث - بیچ (وساطت) ثالثی - وصف - حلیہ - کیفیت - احوال - وصفہ - لفظ جہ وصفات مستوصف - مطب وصل - ایصال - وصول - رسید وکالۃ ایجنسی - (روکیل) ایجنٹ -</p>	<p>هتاف - نعرہ جہ ہتافات ہایت - ٹیلیفون هجومی - ضد دفاعی - اقدامی هتہ اتہداتہ - پرسکون بنانا، رفتار کم کرنا هتہ نہ - صلح، جنگ بندی هتہ تہریبا - اسمگلنگ کرنا - چور بازار کرنا - ممنوعہ اشیا کی خرید و فروخت کرنا هتہ - حوصلہ جہ ہتہم مہتہ - مشن مہمتہ کی پرٹی مہمات - ضروری سامان، میٹرک هتہ ستہ - انجینری - فن تعمیر مہندس انجینئر - ہوایتہ - خاص شوق - هتہ ستہ - برڈ - انجن جہ ہیٹات ہیئتہ الامم المتحدہ - انجن اقوام متحدہ -</p>
<p>و و بر - وابور - ریلوے انجن، اسٹوو و جبتہ - ایک وقت کا کھانا - خوراک و جہ توجیہا - راہنمائی کرنا - اصلاح کرنا توجیہتی - اصلاحی - و حدة - اکائی - پرٹ جہ وحدات ودع - مستودع - گودام - ورد - استیراد - درآمد کرنا - ایراد - آمدنی - پیداوار واردات - درآمات مورد - ذریعہ آمدنی جہ موارد مورد - سامان مہیا کرتے والا - مستورد - امپورٹر - درآمد کنندہ ورشہ - ورکشاپ - ورق النقد - نوٹ -</p>	<p>و و بر - وابور - ریلوے انجن، اسٹوو و جبتہ - ایک وقت کا کھانا - خوراک و جہ توجیہا - راہنمائی کرنا - اصلاح کرنا توجیہتی - اصلاحی - و حدة - اکائی - پرٹ جہ وحدات ودع - مستودع - گودام - ورد - استیراد - درآمد کرنا - ایراد - آمدنی - پیداوار واردات - درآمات مورد - ذریعہ آمدنی جہ موارد مورد - سامان مہیا کرتے والا - مستورد - امپورٹر - درآمد کنندہ ورشہ - ورکشاپ - ورق النقد - نوٹ -</p>	<p>و و بر - وابور - ریلوے انجن، اسٹوو و جبتہ - ایک وقت کا کھانا - خوراک و جہ توجیہا - راہنمائی کرنا - اصلاح کرنا توجیہتی - اصلاحی - و حدة - اکائی - پرٹ جہ وحدات ودع - مستودع - گودام - ورد - استیراد - درآمد کرنا - ایراد - آمدنی - پیداوار واردات - درآمات مورد - ذریعہ آمدنی جہ موارد مورد - سامان مہیا کرتے والا - مستورد - امپورٹر - درآمد کنندہ ورشہ - ورکشاپ - ورق النقد - نوٹ -</p>



MARKKAZ-UL-ISLAMIAH


اکیڈینا



ابریق




ابریق



ابزیم



اُرز




مئذنة



الماس



مئید



ابرة




إجاص



ارضي شوكي




انخطوط




آله فوتوغرافية



مکواة على الکهرباء




مروحة




محلل على الکهرباء




کماشه




مجهر



مواج او راديو




مطحنة




انبيق




ما تلف او توماتيكي



تبان



آله کاتبة




شاقة الطرق



مذياع



نظارة مکبرة




برميل



بطيخ احمر واصفر




بركار




بازنجان



برغی برمیة




باخرة



بندقية



برتقالة




تلفزيون




بطارية



بنی




برج




تومس



ترمس



بلح



تخت



ترهندي



ترمومتر



ترنج



توت




تبغ



تفاح




توتیا




تراموای




تیغ






تلسکوب



تفاریج الدارینہ







مخز




خشخاش



خشخاش



خوخ



خنزيرة البر



النحواف



مخلب



خروب




خنجر



خودة



خردل



خلية



دفي



خشيشة الدياز



دوار الشمس



دلبوث




دلب



دخن



دبوس



دبابة



دراقة

دبوس ابري

دبوس انكليزي

دفة




دورق




دربكة




دوامة



مدفع




درايزون




دوارة



دبوس طيار



دف



دراجة




دورق



دايرة




دلو



دلو من جلد



مدفع رشاش



دراجة نارية



مدرعة



درع



رمان




الرطوبة



الروند



رز



رية البحر



راقود




زادوق



رسن



رسغ الدابة















ركاب



خا



مرساة



مضغط


مضغط

مقياس ادميزان الجوز

قبة المرصد




زوفى



زورق




ازميل



مقياس المطر



زاوية



زنبك



زنبق




زعفران



زوان

الرنجيل



زهرالزرد



زيتون



زمار



زمارة



سنا




ساق



سنف



سفرجل



سنبله



سذاب





سسم



سنديان













ظرف




مظلة



طلح



اطبل



مطعوم



مظلة



مظلة



سنة



سنة



ظلف



عش



نقش



عرد



عجلة




مطعم




عقد



عمود




معول




عروة الثوب



عسالة



عربة



عديات



عجينة التمر




معزى



عنقود




عليق



عذاق




عصاة




عصاة







دج



دكوجة




دلغان وحواره



مجرفة




شریطة



دور



فرن



خابية



مخزن



باب بيت الشقي

باب بيت النار


بيت الشقي



محبوب



قطلب



قنب



قرنفل



بيت النار

قون



قصب



يقطين




قله



اقحوان



قطن



قاعدة مثال



قبة الجرس



قارورة



قرن



قبقاب



مقرعة



قفل







كلبتان




كرة



مكبس



تف



كامه




قنات



كأس



مكب




كوب



مكواة على الكهرباء



كشتبان



كورا



مكنسة



كنجة



كف



كنانة



مكعب



كفل



كنيسة



أكليل




مندبل الرقبة



مطرة




طاس



خيمة




صفارة



قنديل




تحيّة الكشاف




فأس وخنجر



بوصلة



بطارية يدوية



مخدة



جراب



مَتَّ المَهْمَة


حَرْب



سَكِين



مَخِيْم فِي اتِّجَاهِ السَّرْم



عَقْدَةُ التَّقْصِيرِ



عَقْدَةُ الْخَشَبِ



عَقْدَةُ الْقَرَّاشَةِ




عَقْدَةُ الصِّيَادِ



كَرْفَسْ



كَبَاد



كُمُون



كَتَان



شَجَرَةُ الْكَيْنَا



كَافُورَا



كُسْتَنَا




كَبَر



كُوز



كُزْبَرَة



كَمَامَة



مِتر مَعْدَنِي

أَوْ تَوَمَاتِيكِي



مِتر مَعْدَنِي مُزْدَوِج


مِتر



مِتر مَن خَشَب



مِتر مَن قَبَاش



كَرْب



كَوَات




مِتر مَن قَبَاش

مِسطَرَة



مِتر لِّلْمِسَاحَة



عيارات صيدلي

عشر متراو دسيمتر

مكايل من قصدير



مكايل من تنك

دسيمتر مزدوج



عيارات من نحاس


مكايل من خشب



متر مربع



عيارات من حديد الصب




متر مكعب



لوب


ستير



لوب



لوب



ملزمة



ملقط

لسان الميزان



لوز



نفاح



لواء



صدره



قبعة



سترة نسائية



عقال



طربوش




جورب



حذاء



غلالة




كوفية



عباءة



تيص




ملطاس



قفاز



سروال




حقبة



ليمون



ملف




لامة



لينوفر



لحية التيس



لفت



مُتَلَمِّمةُ الفيل



لوزة

لهاءة



لهزيمة

ملعقة



لبلاب



مکوک



مانغا



معدة



میس



مُنْبَه



مَشَش

مَصِير



مَشَط



موسی



مرجان




ماندولین



مِر




موز




مدیة




مالج




مَوَاج



قصبُ المص



مورج



مِهْد


مَغْنَطِيس




مِسِکَة




نظارة



ناجذان



منفاخ




نفق




منجل



نصل الريح




منضخة




منارة




ناي



نفير




ناب



نبلة



فارة حديد



منشار

ريشة المثقب



سندان




سكاشه

ريشة المثقب




فارة «دالوخ»



ملزمة



ملزمة



مقطع المسامير



مرد مسامير



مرد



تفليجة



ازميل خشب




مغزق

مطرقة شاكوش

ملحام

مثقب






مفتاح انكليزي



مفتاح انكليزي




منشار



مقص



منشار



منشار الحطابين




منشار سقالة



منشار



مفتاح انكليزي



منشار صدر



ريشة المثقب



زاوية



محفز خشب



مقياس




منشار للحديد



برغي



مفك براغي



سراقة ظهر



مقص تنك



نسرين




نرجس



منشور



نعنع




منجر



نبراس




انجر




رافعة



نعل



منخل



نعل الفرس



منشاة




منشار




نارجيلة


منصب




نخلة



نطاق



نرد



منبر



أبنوب



هليكون




مهراش



هليكوبتر



هلال



مهراز



هليون



هرطمان



هاتف اوتوماتيكي

اهرام




خط منكسر

خط منحرف

خطان متوازيان

خط مستقيم



خط عمودي

خط أفقي

فادون


عمود



خط عمودي




خط حلزوني



١ و ٢ زاويتان متناظرتان



زاوية منفرجة



زاوية حادة




زاوية حادة

زاوية منفرجة

٧ و ١ زاويتان متبادلتان خارجيتان
٣ و ٥ زاويتان متبادلتان داخليتان
٧ و ٢ زاويتان متجاورتان خارجيتان

٣-١ منصف الزاوية



مثلث مستقيم الزاوية


٣-٤ مثلث متساوي الساقين

٢-١ مستقيم عمودي

٥-١ متوسط



زاوية النقيض



مربع



مثلث متساوي الأضلاع

زاوية قائمة



معيّن


مثلث منفرج




مستطيل



٣-٢ قطر المستطيل مثلث متساوي الساقين




شبه المنحرف




مضلع سباعي

٣-١ و ٣-٤ القاعدتان
٥-١ الحلق

مضلع سداسي



مضلع خماسي



متوازي الأضلاع



كرة



منحروط دائري




شكل هرمي



موشور



مكعب



٣-١-٢ قطاع

دائرة

١ مركز الدائرة


٢-٣-٤ محيط الدائرة

٣-٤ قطر المحيط

١-٢ شعاع أو نصف القطر

٦-٧ المساحة

٨-٩ قاطع الدائرة







١ النقطة المركزية

٢-٣-٤ قوس

٣-٢ وتر القوس



شكل إهليلجي



شكل بيضي ٢-١ المحور الأكبر ٣-٤ المحور الأصغر

غرض أو هدف (في الوسط)

٣-١-٣ زاوية مركزية
٣-٤-٣ قطعة الدائرة




هلال

٤-٥ جيب • ٤-٧ جيب التمام
٣-٢ مُماس • ١-٦ مُماس التمام
٤-٢ قاطع • ١-٤ قاطع التمام

٢-١ نصف القطر القائم ١-٤ شعاع
أو نصف القطر ٣-٤ ٥-٥ مثلث ضمن
دائرة ٦-١ إلى المُسَدَّس مُماسٍ لـ دائرة



وطب




ودعة




وقائض



وتر



وسام



وتد



وزنك



ياسمين



ورد



وذيلة



يانسون



يرقان



ينبوت



جدول مقاييس الطول

(حسب القاعدتين العشرية والانكليزية)

ميل انكليزي	كيلومتر	اصبع (ايش)	سنتيمتر	عقدة	كيلومتر
١	١,٦٠٩	١	٢,٥	١	١,٨٥٢
٢	٣,٢١٩	٢	٥,١	٢	٣,٧٠٤
٣	٤,٨٢٨	٣	٧,٦	٣	٥,٥٥٦
٤	٦,٤٣٧	٤	١٠,٢	٤	٧,٤٠٧
٥	٨,٠٤٧	٥	١٢,٧	٥	٩,٢٥٩
٦	٩,٦٥٦	٦	١٥,٢	٦	١١,١١١
٧	١١,٢٦٥	٧	١٧,٨	٧	١٢,٩٦٣
٨	١٢,٨٧٥	٨	٢٠,٣	٨	١٤,٨١٥
٩	١٤,٤٨٤	٩	٢٢,٩	٩	١٦,٦٦٧
١٠	١٦,٠٩٣	١٠	٢٥,٤	١٠	١٨,٥١٨
٢٠	٣٢,١٨٦	١١	٢٧,٩	١١	٢٠,٣٧٠
٣٠	٤٨,٢٧٩	١٢	٣٠,٥	١٢	٢٢,٢٢٢
٤٠	٦٤,٣٧٣	١٣	٣٣	١٣	٢٤,٠٧٤
٥٠	٨٠,٤٦٦	١٤	٣٥,٦	١٤	٢٥,٩٢٩
٦٠	٩٦,٥٦	١٥	٣٨,١	١٥	٢٧,٧٧٨
٧٠	١١٢,٦٥	١٦	٤٠,٦	١٦	٢٩,٦٣٠
٨٠	١٢٨,٧٥	١٧	٤٣,٢	١٧	٣١,٤٨١
٩٠	١٤٤,٨٥	١٨	٤٥,٧	١٨	٣٣,٣٣٣
١٠٠	١٦٠,٩٥	١٩	٤٨,٣	١٩	٣٥,١٨٥
٢٠٠	٣٢١,٩	٢٠	٥٠,٨	٢٠	٣٧,٠٣٧
٣٠٠	٤٨٢,٨	٢٠	٧٢,٢	٢١	٣٨,٨٨٩
٤٠٠	٦٤٣,٧	٢٥	٨٢,٩	٢٢	٤٠,٧٤٠
٥٠٠	٨٠٤,٧	٤٠	١٠٦,١	٢٣	٤٢,٥٩٣
٦٠٠	٩٦٥,٦	٤٥	١١٣	٢٤	٤٤,٤٤٤
٧٠٠	١١٢٦,٥	٥٠	١٣٧,٠	٢٥	٤٦,٢٩٦
٨٠٠	١٢٨٧,٤	٥٥	١٣٩,٧	٢٦	٤٨,١٤٨
٩٠٠	١٤٤٨,٤	٦٠	١٥٢,٤	٢٧	٥٠
١٠٠٠	١٦٠٩,٣	٦٥	١٦٥,١	٢٨	٥١,٨٥٢

القدم الانكليزي = ٣. سنتيمترًا و ٨. ميليمترًا | اليرد (ذراع) = ٩١ سنتيمترًا و ٤. ميليمترًا
الميل = ١٦٠.٩ امتار و ٤. سنتيمترًا | الاكر = ٤.٤٦ متراً مربعاً و ٧. سنتيمترًا

اوزان الشعر العربي

البيت شطران مصراعان : الصدر والعجز

والشطر اجزاء يقطع اليها الشعر حسب بحور الشعر الاتية نظمها صفي الدين الحلي:

طويل له دون البحور فضائل	البحر الطويل :
لمديد الشعر عندي صفات	البحر المديد :
ان البسيط له ييسر الامل	البحر البسيط :
بحور الشعر واخرها جميل	البحر الوافر :
كمل الجمال من البحور الكامل	البحر الكامل :
على الاخراج تسهيل	بحر الهزج :
في ابحر الارجاز بحر يسهل	بحر الرجز :
رمل الا بحر ترويه اشقات	بحر الرمل :
بحر سريع ماله ساحل	بحر السريع :
مشرح فيه يضرب المثل	البحر المنسرح :
يا حفيفا خفت به الحركات	بحر الخفيف :
تعد المضارعات	بحر المضارع :
اقتضب كما سألوا	بحر المقتضب :
ان حبت الحركات	بحر الدجث :
عن المتقارب قال الخليل	البحر المتقارب :
حركات المحدث تنقل	البحر المتدارك :
فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ	
فَاعِلَاتُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلَاتُنْ	
مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلْ	
مَفَاعِلَاتُنْ مَفَاعِلَاتُنْ فَعُولُنْ	
مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ	
مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ	
مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ	
فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ	
مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ	
مَفَاعِيلُنْ فَاعِلَاتُنْ	
فَاعِلَاتُنْ مُسْتَفْعِلُنْ	
فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ	
فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ	

عبارات الثقل او الوزن

العبارة حسب القاعدة المترية او المشرية

وحدها الغرام (وهو ثقل سنتيمتر مكعب من الماء المقطر في حرارة ٤ درجات سنتيغراد)

ديسينغرام ١٠ غرام	سنتيغرام ١٠٠ غرام	ميليغرام ١٠٠٠ غرام	ديكاغرام ١٠ غرامات
هكتوغرام ١٠٠ غرام	كيلوغرام ١٠٠٠ غرام	قنطار ١٠٠ كيلوغرام	طن ١٠٠٠ كيلوغرام


العبارة الشرقية

الموزونات الثمينة	الميلغرام	كيلوغرام (السودان)
قمحة ٥٠	ميليغرام	غرام (السودان)
قيراط ٢٠٠	ميليغرام	غرام (المغرب)
عباس (للؤلؤ) ١٨٦	ميليغرام (إيران)	كيلوغرام = أقتان
درهم ٣٦٢	غرام	كيلوغرام (السودان)
مثقال ٤٠٦٤	غرام (إيران)	كيلوغرام (للقطن) (مصر)
٤٠٨	غرام	كيلوغرام (المغرب)
شاكية ٤٨٠	غرام	كيلوغرام = ١٠٠ رطل
الموزونات العادية		قياس
أقة ١٠٣٨٢	كيلوغرام	٢٥٠ حمل
أوقية ٣٧٠٤٤	غرام (السودان)	٤٥٠ رطل
٢١٣٠٦٦	غرام	٥٠٠ غرام (السودان)
بطمان تورس ٢٠٧٩٠	كيلوغرام (إيران)	٢٠٥٦٤٠ كيلوغرام = ١٠٠ رطل
بطمان شاهاني ٥٠٥٨٠	كيلوغرام (إيران)	٢٥٠٦٤٠ غرام (السودان)
		١٥٠ غرام (بين التجار)
		١٢٧ غرام (في الجمرات)
		٣٠٤٥ غرام (الكويت)
		٧٢ غرام (البحرين)

العبارة الانكليزية

ليبرة (باوند) ٤٥٣٠٥٩٣ غرام	قنطار ٥٠٠٨٠٢ كيلوغرام	طن ١٠١٦٤٠٤٨ كيلوغرام
----------------------------	-----------------------	----------------------


قمحة ٦٤٠٨ ميلغرام	درام ١٧٧٢ غرام	اونس ٢٨٠٣٥ غرام
-------------------	----------------	-----------------



مرفاع




ميزان التوكاش



قَبَان قَبَان

١- الهيكل العظمي



- ١ العظم الجداري
- ٢ العظم الجبهي
- ٣ العظم الصدغي
- ٤ العظم الوجبي
- ٥ العظم الأنفي
- ٦ الفك العلوي
- ٧ الأسنان العلوية
- ٨ الأسنان السفلية
- ٩ الفك السفلي
- ١٠ الفقرات العنقية
- ١١ الرقبة
- ١٢ عظم اللوح
- ١٣ القعن
- ١٤ العضد
- ١٥ الأضلاع
- ١٦ الأضلاع السابعة الكاذبة
- ١٧ الفقرات القطنية
- ١٨ الخرقفة
- ١٩ الكتف
- ٢٠ العضد
- ٢١ الرقبة
- ٢٢ العضد
- ٢٣ راحة اليد
- ٢٤ مشط اليد
- ٢٥ السلامات
- ٢٦ عظم الفخذ
- ٢٧ الرضفة أو الباعضة
- ٢٨ قصبة الساق أو الطنبوب
- ٢٩ الشظية
- ٣٠ راحة القدم
- ٣١ مشط القدم
- ٣٢ سلاميات القدم



١ العظم الجداري

- | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| ١ الجمجمة | ٢ العضد | ٣ العظم الجبهي | ٤ الشفة |
| ٢ العبود الفقري | ٣ الكتف | ٤ العظم الوجبي | ٢ الطلاطة |
| ٣ الصلب | ٤ مفصل المرفق | ٥ العظم الأنفي | ٣ اللسان |
| ٤ الخرقفة | ٥ الصليب | ٦ الفك العلوي | ٤ الأسنان |

٥ الصليب

٤ مفصل المرفق

٣ قبا على الرأس

٢ الفم

١- الإنسان



- ١ الشعر
- ٢ الهامة
- ٣ الخنقة
- ٤ الصدر
- ٥ العين
- ٦ الأنف
- ٧ الوجنة
- ٨ الخد
- ٩ الفم
- ١٠ الذقن
- ١١ اللحي
- ١٢ الرقبة
- ١٣ جوزة العنق
- ١٤ الكف
- ١٥ الصدر
- ١٦ المعدة
- ١٧ العضد
- ١٨ البطن
- ١٩ اليد

٢- الاسان



- ١ قبة الرأس
- ٢ الأذن
- ٣ جميع الكتف
- ٤ الفم
- ٥ القذال
- ٦ الابط
- ٧ الظهر
- ٨ المرفق
- ٩ السجق
- ١٠ السورك
- ١١ المعصم
- ١٢ الخنصر
- ١٣ البنصر
- ١٤ آخصل لقدم
- ١٥ المابيض
- ١٦ أصابع الرجل
- ١٧ الحياة او البطة
- ١٨ الرنخ
- ١٩ الكتف أو الكاحل
- ٢٠ العقب

- ٢٠ الكاذة
- ٢١ السبابة
- ٢٢ الفخذ
- ٢٣ الوسطى
- ٢٤ الركبة
- ٢٥ السان
- ٢٦ القدم




- ١ الوريد
- ٢ الشريان
- ٣ الوريد
- ٤ الشريان
- ٥ الشريان
- ٦ الشريان
- ٧ الشريان
- ٨ الشريان
- ٩ الشريان
- ١٠ الشريان
- ١١ الشريان
- ١٢ الشريان
- ١٣ الشريان
- ١٤ الشريان
- ١٥ الشريان
- ١٦ الشريان
- ١٧ الشريان
- ١٨ الشريان
- ١٩ الشريان
- ٢٠ الشريان

- ٣ القلب
- ٤ الجفن الاعلى
- ٥ القرنية
- ٦ السحقة او
- ٧ انسان العين
- ٨ الجفن الاسفل




٥- العين



٥- الرسة

- ١ وقصة الرسة
- ٢ الفلقة العليا
- ٣ الفلقة السفلى
- ٤ الرسة اليمنى
- ٥ الرسة اليسرى



٦- جهاز اللسان

- ١ المري
- ٢ الكبد
- ٣ المرارة
- ٤ الاثنى عشري
- ٥ الكبد
- ٦ المعدة
- ٧ بنكرياس او لوزة المعدة
- ٨ المعى الغليظ المتلعد
- ٩ المعى الغليظ المعترض
- ١٠ المعى الدقيق
- ١١ المعى الأعوج
- ١٢ المعى الغليظ النازل
- ١٣ الزائدة الدودية
- ١٤ المستقيم

تفاسیر و علوم قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر

تفاسیر علوم قرانی

تفسیر عثمانی بجز تفسیر عنوانات جدید کتابت ۲ جلد	عالمگیری عثمانی "امداد عنوانات جناب محمد علی رازی
تفسیر مظہری اردو ۱۲ جلدیں	قاضی محمد انور دہلوی
قصص القرآن ۲ حصے در ۲ جلد کامل	مولانا حفص الرحمن سیو حاضری
تاریخ ارض القرآن	عالمگیری سلیمان ندوی
قرآن اور ماحولیات	انجینئر شفیع حیدر شاہ
قرآن سائنس اور تہذیب و تمدن	ڈاکٹر محقق فیضیاء قادری
لغات القرآن	مولانا عبدالرشید نعمانی
قاموس القرآن	قاضی زین العابدین
قاموس الفاظ القرآن الکریم (عربی، انگریزی)	ڈاکٹر عبدالعباس ندوی
مسک البیان فی مناقب القرآن (عربی، انگریزی)	حسان پٹنر
اعمال قرآنی	مولانا اشرف علی تھانوی
قرآن کی باتیں	مولانا احمد سعید صاحب

حدیث

تفہیم البخاری مع ترجمہ و شرح اردو	جلد ۳	مولانا غلام اسحاق علی	فاضل دیوبند
تفہیم المسلم	جلد ۳	مولانا زکریا اقبال	فاضل دارالعلوم کراچی
باب مع ترجمہ	جلد ۲	مولانا فضل احمد صاحب	
سنن ابوداؤد شریف	جلد ۳	مولانا سراج احمد صاحب	مولانا رشید عالم قاسمی صاحب فاضل دیوبند
سنن نسائی	جلد ۳	مولانا فضل احمد صاحب	
معارف الحدیث ترجمہ و شرح	جلد ۳ حصہ ۱	مولانا محمد منظور نعمانی صاحب	
مشکوٰۃ شریف مترجم مع عنوانات	جلد ۲	مولانا عبدالرحمن کاندھلوی	مولانا عبدالعزیز اویہ
ریاض الہ الدین مترجم	جلد ۲	مولانا عقیل الرحمن انسانی	مظاہری
الادب المفرد کمال مع ترجمہ و شرح		از امام بخاری	
مظاہر حق جدید شرح مشکوٰۃ شریف	جلد ۵ مکمل	مولانا عبدالرحمن جاوید غازی پوری	فاضل دیوبند
تقریر بخاری شریف	جلد ۲ مکمل	حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب	
تجربہ بخاری شریف	یک جلد	علامہ حسین بن مبارک زبیدی	
تنظیم الاشتات		مولانا ابوالحسن صاحب	
شرح الیعین نووی		مولانا مفتی عاشق الہی البرنی	
قصص الحدیث		مولانا محمد زکریا اقبال	فاضل دارالعلوم کراچی

ناشر: دارالاشاعت
اردو بازار ایم اے جناح روڈ
کراچی، پاکستان، فون و فیکس (۲۱) ۳۳۱۸۶۱۱
دیگر اداروں کی کتب دستیاب ہیں، مگر ان ملک مجھے کا نظام ہے، فرست کتب مفت ڈاک میں بھیج کر دیتا ہوں۔
اور سزا اسلامی و علمی کتابیں

August-2018

اہلسنت و جماعت کا قرآن و سنت کا عظیم ادارہ۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی

جہاں اسلامی اور عصری علوم کا عظیم امتزاج

مختصر تعارف

شعبہ ناظرہ: 200

شعبہ حفظ: 145

شعبہ تجوید: 11

درس نظامی: 105

طلباء

اور انہی شعبہ جات میں سے 400 سے زائد طلباء اسکول کی تعلیم انٹر تک حاصل کر رہے ہیں نیز کم و بیش 100 طلباء مدرسہ میں رہائش پذیر ہیں جن کے طعام و قیام اور میڈیکل کا خرچہ مدرسہ برداشت کرتا ہے۔

شعبہ حفظ و ناظرہ: 14 اساتذہ

شعبہ عصری علوم (اسکول): 11 اساتذہ

چوکیدار: 2

خادم: 4

باورچی: 2

مدرسہ
کاسٹاف

کل طلباء کم و بیش 461 اور پورا اسٹاف 43 افراد پر مشتمل ہے۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھادہ کراچی پاکستان

DONATION

HABIB BANK LTD. BARNES STREET BRANCH
ACC TITLE: MARKAZ UL ALOOM ISLAMIA (TRUST)
ACC NO: 00500025657003 - branchcode: 0050

f @markazuloom

www.waseemziyai.com



www.waseemziyai.com

انسان کو اپنی زندگی قائم رکھنے، منہی فرائض ادا کرنے میں خوب افہام و تفہیم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو ممتاز پیدا فرمایا اور اظہار مقصد کے لیے لغات کی بڑی مقدار اور بیان کے طریقے سکھائے زبان ہی کی بدولت انسان اپنے مقاصد اور دقیق علمی مضامین کو مختلف عنوانات سے دوسروں کو سمجھانے میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ عربی زبان جو فصاحت و بلاغت اور وسعت و سہولت کے پیش نظر دیگر زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن، امام الانبیاء ﷺ اور اہل جنت کی زبان ہے اسی وجہ سے مسلمان اس کے دلدادہ ہیں نہ یہ کہ فقط عربی بھائیوں سے بول چال و مراسلت کا تعلق رکھا جائے۔ مسلمان عربی لغت کو دینی فریضہ سمجھ کر سیکھتے ہیں اور ان کا اولین مقصد قرآن و سنت کا سمجھنا اور سمجھانا ہے جس کے لیے نزول قرآن کے زمانہ کی عربی کو پوری احتیاط سے جمع کرنا اور ہر قسم کی تخیل و تلمیس سے محفوظ رکھنا اور مولد الفاظ سے اجتناب کرنا از بس ضروری ہے جیسا کہ سابق علماء لغت نے لغت عربی کے ان محدثانہ اصولوں سے کام لیا اور ان کی متعدد تصانیف موجود ہیں۔

المنجد جو عربی لغت کا ایک انسائیکلو پیڈیا ہے جس کے طرز جدید اور تصاویر نے اگرچہ لفظ کا مفہوم متعین کرنے اور لغت کو سمجھنے میں کچھ سہولتیں ضرور پیدا کر دیں لیکن مسلمان جس مقصد کے لیے عربی لغت حاصل کرتا ہے اس مقصد کو بڑی حد تک مجروح بھی کر دیا جس کی وجہ اس کے عیسائی مصنف کا جدید لغات اور جدید محاورات کو بدون کسی امتیاز کے لغت عربی کا جزو بنادینا ہے جس کی وجہ سے کتب اسلامیہ کے سمجھنے میں طرح طرح کے مغالطوں کا قوی امکان تھا۔ نیز مصنف نے متعصبانہ ذہنیت کے پیش نظر زبردستی عیسائی عقائد کو ٹھونسنا (تفصیل کے لیے صفحہ ۴۲ ملاحظہ کیا جائے) اور اسلامی مشاہیر و مشہور مقامات میں سے شاذ و نادر ہی کسی کا ذکر کیا تھا۔

مذکورہ بالا نقائص کی اصلاح اور اردو داں طبقہ کی آسانی کے لیے مستند علماء کی ایک کمیٹی نے انتھک وجاں فشانی کے ساتھ المنجد کا ترجمہ کیا جو اصول و تاریخ لغت پر حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے مفید و جامع مقدمہ، اہم لغات جو المنجد سے رہ گئے تھے اور اسلامی معاشی الفاظ کے اضافات کے ساتھ پاکستان میں پہلی مرتبہ دارالاشاعت سے شائع ہو کر مقبول عام ہوا اب اعلیٰ معیار و طباعت کے ساتھ کتاب کو شائع کیا جا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ مترجمین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے لیے اسے قرآن و حدیث کے سمجھنے میں معاون ثابت کرے۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھادر کراچی پاکستان
www.waseemziyai.com